

مِصْبَاحُ الْعِلْمِ

مکمل عربی اُردو کشتی

پچاس ہزار سے زیادہ عربی الفاظ کا بہترین مجموعہ

مستقیم

لفضل مولانا عبد الحفیظ بلیاوی

استاذ ادب ندوۃ العلماء لکھنؤ

مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ ققوسیہ



مِصْبَاحُ الْعِلْمِ

مِصْبَاحُ الْعَرَبِيَّةِ

مکمل عربی اُردو کشتری


پچاس ہزار سے زیادہ عربی الفاظ کا بہترین مجموعہ

مستقبہ

لفضل مولانا عبد الحفیظ بلیاوی

استاذ ادب ندوۃ العلماء لکھنؤ

مکتبہ قدوسیہ اُردو بازار لاہور



جملہ حقوق محفوظ ہیں

ناشر _____ ابو بکر قدوسی
اشاعت _____ جولائی 1999ء
مطبع _____ موٹروے پریس

	MAKTABA QUDDUSIA REHMAN MARKET GHAZNI STREET URDU BAZAR LAHORE - PAKISTAN. Ph: 7351124 - 7230585 Fax: 92 - 42 - 7230585 Email: qadusia@brain.net.pk
---	---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

اَمَّا بَعْدُ! تقریباً دس سال ہوئے میں مدرسہ مصباح العلوم بریلی میں طلبہ کی خدمت پر مامور تھا کہ بعض بزرگوں اور عزیز طلبہ نے اصرار کے ساتھ خواہش کی کہ المنجد کی طرز پر ایک لغت کی کتاب ترتیب دی جائے جس میں ترجمہ اردو میں ہو، ایک مدت سے ایسی کتاب کی ضرورت میں خود محسوس کرتا تھا، لیکن اپنی کم مائیگی اور بے بضاحتی کی وجہ سے اس اہم کام کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تھا اور ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا اسی اثناء میں ایک مکتبہ نے تمنا ظاہر کی، پھر کیا تھا بزرگوں اور عزیزوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے پھر اصرار شروع کیا اُن کے اصرار کے سامنے مجبور ہونا پڑا۔ کسی ایک زبان کو دوسری زبان میں شکل کرنا جتنا دشوار کام ہے اس سے کچھ وہی حضرات واقف ہیں جن کو اس قسم کے کام سے سابقہ پڑا ہو۔ اس کو وہی شخص کر سکتا ہے جو دونوں زبانوں کا ماہر اور دونوں کے ادب پر پوری طرح حاوی ہو اور اپنی حالت یہ ہے کہ عربی زبان تو بہر حال مادری زبان نہیں ہے جو مادری زبان ہے اسی سے پوری طرح واقفیت نہیں۔ سرکیف اس احساس کے ساتھ کام شروع کیا اور کام کرتے ہوئے تاج العروس، 'جمہورۃ اللغۃ' اقرب الموارد، قاموس کتاب الافعال لابن قوطیہ، تاج اللغات، مفردات امام راغب، 'معجم البحار' نہایہ ابن اثیر، منتہی الارب المنجد، صراح یہ سب کتابیں پیش نظر رہیں۔ ہر لفظ کے معنی و مراد کی تمامیت تحقیق کے ساتھ تعین کی گئی پھر علمی ناظرین سے اجازت ہے کہ اگر کہیں غلطی نظر آئے تو دامن غم سے چھپائیں اور ہو سکے تو مجھے اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں سچ کر دی جائے، چونکہ یہ کام مدرسہ مصباح العلوم میں شروع ہوا تھا اس لیے اس کتاب کا نام بعض بزرگوں نے مصباح اللغات تجویز کیا ہے۔ سالہا سال کی عرق ریزی کے بعد تالیف سے فارغ ہوا تو طباعت کا دشوار گزار مرحلہ درپیش تھا۔ وہ مکتبہ جس کے اظہار تمنا کی بنیاد پر میں نے کام شروع کیا تھا اب اس کے انتظام و انصرام سے انکار کر چکا تھا۔ اسی پریشانی میں تھا کہ عین وقت پر ندوۃ المصنفین اور مکتبہ برہان کے بانی جناب مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی مدظلہ نے دست گیری فرمائی اور اسے مکتبہ برہان سے شائع کرنے کا وعدہ کر لیا، ایسے نازک اور احتمالی مشکل وقت میں جناب مفتی صاحب موصوف اس خدمت کا بار اپنے ذمے نہ لیتے تو ظاہری اسباب کے تحت میں اس کی تکمیل و اشاعت سے قاصر رہتا، اس لیے میں موصوف کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، دہلی کے ۱۹۳۷ء کے ہنگاموں میں ندوۃ المصنفین اور مکتبہ برہان کا دفتر جو اُن دنوں قزلباغ میں تھا وحشت و بربریت کے نذر ہو گیا یہاں تک کہ اس عظیم الشان ادارے کی زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا، تاہم مفتی صاحب مدظلہ اپنے وعدہ پر قائم رہے اور اتنے بڑے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔


نیز بڑی ناشکری ہو گی اگر صدیق کرم جناب مولانا مولوی حکیم صدیق احمد صاحب امرودی دارو حال بریلی اور جناب مولانا عبدالقدیم صاحب صدر مدرس مدرسہ مصباح العلوم بریلی اور فاضل جلیل جناب مولانا مولوی جلیل احسن ندوی صاحب کے احسانات سے اپنے آپ کو بیکدوش سمجھوں کہ ازل الذکر دو حضرات نے اپنی کتابوں سے مؤخر الذکر نے اپنے علمی فیوض سے فائدہ پہنچایا خد تعالیٰ ان حضرات کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔

ابوالفضل عبدالحفیظ بلیاوی غفرلہ

دارالعلوم ندوۃ العلماء - بادشاہ باغ لکھنؤ

۱۰ شعبان المعظم ۱۳۶۹ھ مطابق ۲۸/ مئی ۱۹۵۰ء





مصباح اللغات کے رموز و اشارات

ف	سے فراد اسم فاعل	م	سے فراد مصدر	(س)	سے فراد باب سمع بسمع
مض	سے فراد اسم مفعول	(ض)	سے فراد باب ضرب بضر	(ک)	سے فراد باب کرم بکرم
ج	سے فراد جمع	(ن)	سے فراد باب نصر بناصر	(ح)	سے فراد باب حسب بحسب
ج	سے فراد جمع الجمع	(ف)	سے فراد باب فتح بفتح		

اگر کسی کلمہ کی تلاش ہو اور وہ مجرد ہو یا اگر مزید ہو تو مجرد بنا کر یا پہلا حرف بدلا ہوا ہو تو اصل کی طرف لوٹا کر پہلے حرف کے باب میں تلاش کرو۔

بعض قیاسی احکام

لغت عربی کے متعلم کو فن صرف کے قواعد سے اچھی طرح واقف ہونا چاہئے تاکہ جن قیاسی چیزوں کے ذکر کو چھوڑنے کی عام عادت ہے ان کے استعمال میں غلطی نہ ہونے پائے۔ لیکن پھر بھی بعض قواعد فائدہ کے لیے یہاں لکھ دیئے جاتے ہیں۔

مجرد کو مزید بنا دینے سے حسب ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں :

(۱) تعدیہ : لازم سے متعدی ہونا یا اگر فعل متعدی ہو تو ایک اور مفعول کو اضافہ ہوتا۔

(۲) تصصیر : صاحب ماخذ بنا دینا۔

(۳) تعریض : مفعول کو ماخذ کے محل اور موقع میں لے جانا۔

(۴) وجدان : کسی چیز میں ماخذ کی صفت کا پایا جانا۔

(۵) ابتداء : کسی فعل کی ابتداء اسی باب سے ہونا بغیر اس کے کہ وہ فعل ثلاثی مجرد سے آیا ہو اور اگر وہ مادہ مجرد سے آیا ہو تو وہاں وہ معنی نہ ہوں جو ثلاثی مزید میں ہیں۔

(۶) استحاؤ : کسی چیز کو ماخذ بنانا یا ماخذ میں لینا۔

(۷) اشتراک : دو مفعولوں کو کسی کام میں شریک ہونا اس طرح کہ ہر ایک فاعل اور مفعول دونوں کی حیثیت رکھتا ہو۔

(۸) اقتضاب : کسی فعل کی ابتداء اسی باب سے ہونا اور ثلاثی مجرد مطلقاً کسی باب سے نہ آنا۔

(۹) الیاس ماخذ : کسی چیز کو ماخذ بنانا۔

(۱۰) بلوغ : ماخذ میں آنا یا ماخذ میں پہنچنا۔

(۱۱) تجسب : ماخذ سے پہنچنا۔

(۱۲) تحویل : کسی چیز کا عین ماخذ ہونا یا مثل ماخذ ہونا۔

(۱۳) تحویل : کسی چیز کو ماخذ یا مثل ماخذ بنا دینا۔

(۱۴) تخلیط : کسی چیز کو ماخذ سے آراستہ کرنا۔

(۱۵) تخییر : فاعل کا کسی فعل کو اپنی ذات کے لیے کرنا۔

(۱۶) تحخیل : فاعل کا اپنی ذات میں ماخذ کا حصول دکھانا یا جتاننا جس سے صرف دکھا دیا بنا دیا مقصود ہو۔

(۱۷) تدریج : کسی فعل کو آہستہ آہستہ کرنا۔

(۱۸) تصرف : ماخذ کے حصول میں کوشش کرنا۔

(۱۹) تعھمل : ماخذ کو کام میں لانا یا ماخذ سے کام لینا۔

(۲۰) تکلف : ماخذ میں تصنع یا بناوٹ ظاہر کرنا۔

فائدہ - تکلف اور تحخیل میں فرق یہ ہے کہ تکلف میں جو تصنع ہے وہ مرغوب فعل ہوتا ہے مگر تحخیل میں جس فعل کا اور تکلف ہوتا ہے وہ محض دکھا دیا اور جعل ہوتا ہے۔

(۲۱) حسان : کسی چیز کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ ماخذ کے معنی سے موصوف ہے۔

فائدہ - حسان اور وجدان میں فرق یہ ہے کہ وجدان میں یقین پایا جاتا ہے اور حسان میں شک و گمان۔

(۲۲) صیونت : کسی امر کا ماخذ کے وقت میں واقع ہونا یا اس وقت میں پہنچنا۔

(۲۳) سلب : کسی چیز سے ماخذ کو دور کرنا۔

(۲۴) صیورت : صاحب ماخذ ہونا۔

(۲۵) طلب : ماخذ کو طلب کرنا چاہنا۔

(۱۳) موافقت : مجرد جیسے أَقْلْتُ البیع یعنی قلنته یعنی فسختہ
(۳۱)

باب تفعیل

(۱) ابتداء : جیسے تَكَلَّمَ - اس نے کلام کیا (مجرد کلمہ - زخمی کرنا)
(۵)

(۲) الہاس ماخذ : جیسے جملل الفرس = اس نے گھوڑے کو جھول
پہنائی۔ (۹)

(۳) بلوغ : جیسے خَتَمَ - وہ خیرہ میں آیا۔ (۱۰)

(۴) تحویل : جیسے نَصَرَ - اس نے نصرانی بنایا۔ (۱۳)

(۵) تخلیط : جیسے ذَهَبَ - اس نے سنہری بنایا۔ (۱۳)

(۶) حمیمیر : جیسے وَتَرَ القَوَسَ - اس نے کمان کو زہ دار بنایا۔ (۲)

(۷) تعدیہ : جیسے فَرَّخَنِي = اُس نے مجھے خوش کیا۔ (۱)

(۸) سلب : جیسے قَوَّذَ الْإِبِلَ - اُس نے اونٹ سے بچھڑی کو دور
کیا۔ (۲۳)

(۹) صیروت : جیسے نَوَّرَ الشَّجَرَ - درخت گھونڈ دار ہو گیا۔
(۲۳)

(۱۰) قصر : جیسے هَلَّلَ - اُس نے اِلَّا اللہ کہا۔ (۲۶)

(۱۱) مبالغہ : جیسے جَوَّلَ - وہ بہت گھوما (۲۹)

(۱۲) نسبت بمآخذ : جیسے فَسَّقَنِي - اُس نے مجھے بدکار کیا۔ (۳۲)

باب مفاعله

(۱) اشتراک : جیسے قَاتَلَ زَيْنًا عَمْرًا - زید نے عمرو سے مقابلہ
کیا اور عمرو نے زید سے (۷)

(۲) موافقت مجرد : جیسے سَافَرْتُ - یعنی سفر۔

موافقت أَعْلَلَ - جیسے بَاعَدْتَهُ - یعنی ابْعَدْتُهُ

موافقت فَعَّلَ - جیسے ضَاعَفَ - یعنی ضَاعَفَ (۳۱)

باب تفعیل

(۱) ابتداء : جیسے تَكَلَّمَ - اس نے کلام کیا (۵)

(۲) اتحاز : جیسے تَوَسَّطَ الْعَجْوُ - اُس نے اپنے پتھر کو حکمے بنایا۔
(۶)

(۳) تجنب : جیسے قَاتَمَ - اُس نے گناہ سے پرہیز کیا۔ (۱)

(۴) تحویل : جیسے نَصَرَ - وہ نصرانی ہو گیا۔ (۳)

(۵) تعمل : جیسے نَخَعَمَ - اُس نے انگوٹھی پہنی۔ (۱۹)

(۶) تدریج : جیسے تَجَوَّعَ - اُس نے گھونٹ کر کے پیا۔ (۱۷)

(۲۶) قصر : اختصار کے لیے کسی کلمہ کا مرکب سے اشتقاق کے طور
پر بنانا۔

(۲۷) لزوم و علاج : فعل میں جو ارج یعنی اعضاء کے کام کا اثر پایا
جاتا۔

(۲۸) لیاقت : کسی چیز کا ماخذ کے لائق ہونا۔

(۲۹) مبالغہ : کسی امر کی کیفیت یا اس کی مقدار کی زیادتی کو بیان
کرنا۔

(۳۰) مطاوعت : ایک فعل کے دوسرے فعل کو لانا۔ جس سے
ظاہر ہو کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا۔

(۳۱) موافقت : کسی فعل کا ہم معنی ہونا۔

(۳۲) نسبت بمآخذ : کسی چیز کا ماخذ سے منسوب ہونا۔

(۳۳) عطاء ماخذ : ماخذ دینا۔

(۳۴) تشارک : دو چیزوں کا فعل کے صدور میں شریک ہونا۔

باب الافعال

(تعریف کے لیے سامنے لکھے ہوئے نمبر کو دیکھو)

(۱) ابتداء : جیسے أَشْفَقَ وہ ڈر گیا (مجرد شفق - سر ہائی کرنا) (۵)

(۲) بلوغ : جیسے أَعْرَفَ - عراق میں پہنچا (۱۰)

(۳) تصبیور : جیسے أَشْرَكَ الْفَعْلَ - اُس نے تمہارا جوتا بنایا۔
(ماخذ شراک بمعنی تمہارا) (۲)

(۴) تعدیہ : جیسے اخراج - نکالا۔ (۱)

(۵) تعریض : جیسے أَبْعَثَ الْحِمَارَ - میں گدھے کو بیچنے کی جگہ
لے گیا۔ (۳)

(۶) صیروت : جیسے أَحْصَدَ الزُّرْعَ - کھیتی کے کٹنے کا وقت آ
گیا۔ (۲۲)

(۷) لیاقت : جیسے أَلَامَ الْفَرْعَ - سردار قابل ملامت ہوا (۲۸)

(۸) سلب : جیسے أَشْكَنْتُهُ - میں نے اس کی شکایت دور کی۔
(۲۳)

(۹) صیروت : جیسے أَلْبِنَ الْبَقْرَ - گائے دودھ والی ہو گئی (۲۳)

(۱۰) مبالغہ : جیسے أَمَمَ النَّخْلَ - کھجور کے درخت میں بہت سی
کھجوریں لگیں۔ (۲۹)

(۱۱) نسبت بمآخذ : جیسے أَكْفَرْتُهُ - میں نے اسے کفر سے نسبت
دی۔ (۳۲)

(۱۲) وجدان : جیسے أَبْعَلْتُهُ - میں نے اسے بخیل پایا۔ (۳)

موافقت تفاعل : جیسے اِخْتَصَمَ بمعنی تَخَاصَمَ (۳۱)

باب استفعال

(۱) طلب : جیسے استطعمته۔ میں نے اس سے کھانا طلب کیا (۲۵)

(۲) لیاقت : جیسے استوقع الثوب۔ کپڑا قابل بیوند ہوا۔ (۲۸)

(۳) وجدان : جیسے استكرمه۔ میں نے اس کو کرم سے ضعف پایا۔ (۳)

(۴) حسابان : جیسے استخسنته۔ میں نے اس کو اچھا گمان کیا (۲۱)

(۵) تحول : جیسے استخجز الطين۔ مٹی پتھر بن گئی (۱۳)

(۶) اتحاز : جیسے استوطن القرى۔ اس نے دیہاتوں کو وطن بنایا (۶)

(۷) تکلف : جیسے استعجزا۔ اس نے جرات دکھائی۔ (۲۰)

(۸) قصر : جیسے استزجج۔ اس نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ کہا۔ (۲۶)

(۹) مطاوعت انفل : جیسے اَقْدَتْہُ فَاَسْتَقَامَ۔ میں نے اسے سیدھا کیا وہ سیدھا ہو گیا۔ (۳۰)

(۱۰) موافقت مجرور : جیسے قَرَوِ اسْتَقَرَّ (۳۱)

موافقت انفل : جیسے اَجَابَ وَاِسْتَجَابَ (۳۱)

(۱۱) ابتداء : جیسے استعان۔ زیر تان کے بال کاٹنے (۵)

باب الافعال

(۱) مبالغہ : جیسے اسودَّ اللَّیْلُ۔ رات بہت تاریک ہو گئی (۲۹)

فائدہ۔ اکثر یہ ہاے الوان و عیوب کے لیے آتا ہے جیسے اِحْمَرَّ اَبِیضٌ اِحْمَرَّ اور ہمیشہ لازم ہوتا ہے۔

باب اِفْعِلْ عَمَل

(۱) مبالغہ : جیسے اِخَذُوذِبَ۔ بہت کبڑا ہو گیا۔ (۲۹)

(۲) موافقت مجرور : جیسے اِخْلَوَالِ التَّفَرُّ بِمَعْنٰی حَلًا (۳۱)

باب اِفْعُوَال

(۱) مبالغہ : جیسے اِجْلُوذَ۔ وہ بہت تیز دوڑا۔ (۲۹)

باب اِفْعِلَال

(۱) مبالغہ : جیسے اِحْمَارَ۔ بہت سرخ ہوا۔ (۲۹)

یہ باب الوان و عیوب کے لیے مخصوص ہے۔

باب تفعیل

(۱) مطاوعت : جیسے دَخِرْ حَتَّہُ فَاَتَدَخِرْجَ۔ میں نے اسے لڑکا

(۷) تکلف : جیسے تَشَجَّعَ = وہ بہادر بنا۔ (۲۰)

(۸) صیرورت : جیسے تَمَوَّلَ = وہ مالدار ہو گیا (۲۳)

(۹) مطاوعت فعل : جیسے علمته فَتَعَلَّمُ۔ میں نے اسے سکھایا اور وہ سیکھ گیا۔ (۳۰)

باب تفاعل

(۱) ابتداء : جیسے تَبَارَكَ اللّٰهُ = اللہ بڑی برکت والا ہے (مجرور برکت = اُونٹ کا بیٹھنا) (۵)

(۲) تشارک : جیسے تَشَاتَمَا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گالی دی۔ (۳۳)

(۳) تخیل : جیسے تَمَازَضَ = اس نے اپنے آپ کو مریض ظاہر کیا (۶)

(۴) مطاوعت فاعل : جیسے بَاعَدْنُهُ فَبَاعَدَ۔ میں نے اسے دور کیا وہ دور ہو گیا۔ (۳۰)

باب انفعال

(۱) ابتداء : جیسے اِنْتَظَلِقَ = وہ گیا (مجرور تطلق) (۵)

(۲) لزوم و علاج : جیسے اِنْكَسَرَ = وہ ٹوٹ گیا۔

مطاوعت فعل : جیسے كَسَرْتُهُ فَاِنْكَسَرَ۔ میں نے اسے توڑا وہ ٹوٹ گیا۔

مطاوعت اَنْفَعَلَ : جیسے اَغْلَقَ الباب فَاِنْعَلَقَ = اس نے دروازہ بند کیا اور وہ بند ہو گیا۔ (۳۰)

فائدہ۔ باب اِنْفَعَال ہمیشہ لازم ہوتا ہے متعدی نہیں اور ہمیشہ ایسے معانی کے لیے آتا ہے جن کا تعلق اعضاء ظاہری سے ہو۔

باب افتعال

(۱) اتحاز : جیسے اِحْتَجَزَ الفَاژ۔ چوہے نے مل بنایا۔ (۶)

(۲) تخبیر : جیسے اِكْتَالَ الشَّعِيرَ۔ اس نے اپنے لیے جو تاپے (۱۵)

(۳) تصرف : جیسے اِكْتَسَبَ الفضل۔ اس نے کوشش کر کے فضیلت حاصل کی۔ (۱۸)

(۴) مطاوعت فعل : جیسے غَمِنَہ فَاغْتَمَ۔ میں نے اسے غمگین کیا اور وہ غمگین ہوا۔ (۳۰)

(۵) طلب : جیسے اِكْتَدَّ فَلَآتَا۔ اس نے فلاں سے مشقت طلب کی۔ (۲۵)

(۶) موافقت فعل : جیسے اجتذب بمعنی جذب

(۳) فعل لازمی کا مصدر فَعُولٌ کے وزن پر جیسے فَعُوذٌ، خُرُوجٌ، نُهْضٌ۔

(۴) فَعِيلٌ اور فَعَلٌ کے وزن پر جیسے فَعِمٌ، نَصْرٌ۔

غیر ثلاثی کے مصادر

ثلاثی کے علاوہ سارے مصادر قیاسی ہیں۔ فَعَلٌ کا مصدر تَفَعَّلٌ ہے جیسے قَتَلَ تَقْبِيلاً اور تَفَعَّلَ کے وزن پر بھی آتا ہے مگر کم جیسے وَسَّعَ وَتَوَسَّعَ، قَدَّمَ وَقَدَّمَهُ۔ اگر موزوں الٹا ہو تو تفعُّلہ کا وزن زیادہ اور تفعیل کا کم آتا ہے جیسے تَبَّأَ تَبْيِئَةً وَتَبَّأَ تَوْبِئَةً، هَتَأَ تَهْتِئَةً اور اگر ناقص ہو تو صرف مفعول ہی کا وزن آتا ہے۔ جیسے حَلَّى تَحْلِيهِ، زَكَّى تَزْكِيَةً اور اگر اجوف ہو تو صرف تفعیل کا وزن آتا ہے جیسے قَوَّسَمٌ تَقْوِيْمًا، سَوَّدَ تَسْوِيْدًا۔

فَاعِلٌ کا مصدر فَعَالٌ و مَفَاعَلَةٌ ہے جیسے قَاتَلَ قِتَالًا وَ مَفَاعَلَةً ہے لیکن جن مواد میں فاع کلمہ یاء ہو وہاں مَفَاعَلَةٌ کا وزن متعین ہے جیسے يَامَسُوْا، مِيَاَسُوْرَةٌ، يَامَنْ مِيَاَمَنَةٌ اور يَاوَمٌ مِيَاوَمَةٌ وَ يَوْمًا شَاوَمٌ۔

أَفْعَلٌ کا مصدر اِفْعَالٌ ہے جیسے اَكْرَمَ اِكْرَامًا اور اگر عین کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو نقل کر کے الف سے بدل دیتے ہیں، دو الف کے جمع ہونے کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں جیسے اَمَاتٌ، اَمَاتَةٌ، اِغَاثٌ، اِغَاثَةٌ، اِشَارٌ، اِشَارَةٌ۔

تَفَعَّلٌ کا مصدر تَفَعَّلٌ اور تَفَاعَلٌ کا تَفَاعَلٌ ہے لیکن ان دونوں میں جب لام کلمہ حرف علت ہو تو یا سے بدل کر ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں جیسے قَاتَى، قَاتِيًّا، تَفَاعَضَى تَفَاعَضِيًّا۔

اِفْتَعَلَ کا مصدر اِفْتِعَالٌ، اِنْفَعَلَ کا اِنْفِعَالٌ، اِفْعَوْعَلَ کا اِفْعِيْعَالٌ اور اِفْعَلٌ کا اِفْعَالٌ ہے جیسے اِشْتَرَكَ اِشْتِرَاكًا، اِنْتَلَقَ اِنْتِلَاقًا، اِخْتَذَوْبٌ اِخْتِيْذًا اور اِسْتَوْدِ اِسْتِوْدًا۔

اِسْتَفْعَلَ کا مصدر اِسْتَفْعَالٌ ہے لیکن عین کلمہ حرف علت ہو تو الف سے بدل کر حذف کر دیتے ہیں اور آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں جیسے اِسْتَقَامَ اِسْتِقَامَةً۔

فَعْلَلٌ کا مصدر فَعْلَلَةٌ اور فَعْلَلٌ ہے جیسے ذَخَرَ ذَخْرَةً وَ ذَخَرَاجًا۔ دوسرا وزن صرف مضاعف ہونے کی صورت میں

دیا وہ لڑھک گیا۔ (۳۰)

علماء صرف کے نزدیک ان کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جن کو تطویل کے خوف سے نظر انداز کر دیا گیا۔

اور ان ابواب مزید فیہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر مجرور سے بتایا جائے بلکہ اس کا مدار سماع اور کتب لغت پر ہے۔

مشققات

فعل سے جو اسم مشتق ہوتے ہیں وہ دس ہیں: (۱) مصدر، (۲) اسم، (۳) مرۃ، (۴) اسم نوع، (۵) ظرف مکان و ظرف زمان، (۶) اسم قائل، (۷) اسم مفعول، (۸) صفت مشبہ، (۹) اسم تفعیل، (۱۰) مبالغہ۔

ثلاثی مجرد کے مصادر قیاسی نہیں ان کے بست سے اوزان ہیں۔ اور ان کا مدار سماع پر ہے لیکن یوں ضبط میں لایا جا سکتا ہے کہ عموماً:

(۱) جو پیشہ کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن فَعَالَةٌ ہے جیسے زِرَاعَةٌ، تِجَارَةٌ، حَيَاكَةٌ۔

(۲) جو اجتماع کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن فَعَالٌ ہے جیسے آباءٌ، شرادٌ، جماعٌ۔

(۳) جو اضطراب کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن فَعْلَانٌ ہے جیسے غَلِيَانٌ، جَوْلَانٌ، خَفِقَانٌ۔

(۴) جن کی دلالت امراض پر ہو ان کا وزن فَعَالٌ ہے جیسے ضِدَاعٌ، زَكَامٌ، دَوَارٌ۔

(۵) جن کی دلالت سیر پر ہو ان کا وزن فَعَالٌ اور فَعِيلٌ ہے جیسے زَجِيْلٌ، وَدَمِيْلٌ۔

(۶) جن کی دلالت آواز پر ہو ان کا وزن فَعَالٌ اور فَعِيلٌ ہے جیسے ضِرَاحٌ، خَوَارٌ، زَيْفَرٌ، زَيْفِيمٌ۔

(۷) جن کا مدلول رنگ ہو ان کا وزن فَعْلَةٌ ہے جیسے حُمْرَةٌ، رِزْقَةٌ، حُمْرَةٌ۔

اور اگر ان معانی پر دلالت نہ ہو تو عموماً:

(۱) فعل کا مصدر فَعُوْلَةٌ اور فَعَالَةٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے سَهْوَةٌ، نَبَاهَةٌ، فِصَاحَةٌ۔

(۲) فعل لازمی کا مصدر فَعْلٌ کے وزن پر ہے جیسے فَرَحٌ، عَطَشٌ، بَلَجٌ۔

حرفِ مکان و حرفِ زمان

حرفِ مکان وہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو بتلائے اور حرفِ زمان وہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کے زمانہ کو ظاہر کرے۔

ثلاثی مجرد سے حرفِ خواہ زمانی ہو یا مکانی مفعول کے وزن پر آتا ہے جبکہ مضارع کا عین مضموم ہو یا مفتوح جیسے مَنصَرٌ، مَفْتَحٌ، مَنصَمَعٌ اور اگر مضارع کا عین کمور ہو تو مفعول کے وزن پر جیسے مَنخَلِسٌ، مَنزُولٌ۔

اس قاعدہ سے الفاظ مندرجہ ذیل مشتقی ہیں 'ان سب کا وزن مفعول ہے باوجودیکہ ان کے مضارع کا عین مضموم ہے مَنصَجِدٌ، مَشْرُوقٌ، مَغْرُوبٌ، مَظْلُغٌ، مَجْرُودٌ، مَرْفُوقٌ، مَفْرُوقٌ، مَسْكِينٌ، مَنسِكٌ، مَنبِتٌ، مَسِيقٌ۔

مثال سے طرفِ زمان و مکان ہمیشہ مفعول کے وزن پر اور ناقص سے ہمیشہ مفعول کے وزن پر جیسے مَوَعِدٌ، مَوَجِلٌ، مَطْوِيُّ، مَرْمِيٌّ۔

اور ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مصدر میسی کی مانند جیسے اَذخَلَ سے مَذخَلٌ، اَخْرَجَ سے مَخْرُجٌ، اَخَذَعَ سے مَخْدَعٌ۔

کسی جگہ میں کسی چیز کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے مفعولہ کا وزن مقرر ہے، جیسے مقبرہ جمال قبریں زیادہ ہوں۔ مابِلہ۔ جمال اونٹ زیادہ ہوں۔ مفعلة۔ جمال سانپ زیادہ ہوں۔ مسبعة۔ جمال درندے زیادہ ہوں۔ کہا گیا ہے کہ یہ وزن ثلاثی مجرد و مزید سے قیاسی ہے اور بعض کا قول ہے کہ کثرت سے آتا ہے مگر قیاسی نہیں۔

اسم آلہ

کام کرنے کے آلے اور اوزار کا نام اسم آلہ ہے یہ صرف ثلاثی مجرد متعدی سے بنتا ہے اس کے تین وزن ہیں۔ مفعَلٌ جیسے مِزْدٌ۔ مفعَالٌ جیسے مَفْتَاحٌ۔ مفعَلَةٌ جیسے مِكْنَسَةٌ اور یہ اوزان بھی قیاسی نہیں۔ مَنخَلٌ، مُدْهِنٌ، مِكْحَلَةٌ، مَدَقٌ، مُسْغَطٌ، مَنزَاةٌ، مُسْطٌ وغیرہ الفاظ اسماء جامدہ کے مانند ہیں۔ ان کا فعل اسے اشتقاق نہیں اور اسم آلہ جو فعل سے مشتق نہ ہو اس کے لیے

تَفَعَّلٌ كَتَفَعَّلٌ۔ اِفْعَلَلٌ كَاِفْعَلَلًا۔ اِفْعَلَّلٌ كَاِفْعَلَّلًا ہے جیسے تَدَحْرَجُ تَدَحْرَجًا۔ اَحْرَجِمُ اَحْرَجِمًا۔ اِفْشَعُرُ اِفْشَعُرًا۔

فعل مجہول کے لیے مصدر کا کوئی خاص وزن مقرر نہیں۔ فعل معروف کا مصدر ہی اس کا کام بھی دیتے ہیں جیسے ضَرْبٌ ضَرْبًا جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ ضَرْبٌ ضَرْبًا مصدر میسی

ثلاثی مجرد سے مصدر میسی مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے منظرٌ، مضربٌ، مرمیٌ اس قاعدہ سے سات الفاظ مَجِيٌّ، مَرْجِعٌ، مَسِيْرٌ، مَصِيْرٌ، مَشِيْبٌ، مَرْفِقٌ، مَقِيْلٌ مشتقی ہیں۔ مثال وادی سے مفعول کے وزن پر خواہ مضارع کا عین کلمہ کمور ہو یا مفتوح جیسے مَوْرِدٌ، مَوَعِدٌ، مَوَجِلٌ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع مجہول کے وزن پر بجائے علامت مضارع کے ميم مضموم لگا کر جیسے مَنخَدَرٌ، مَصْطَبٌ، مَزْلَحِمٌ۔

اسم مرة و اسم نوع

اسم مرة وہ مصدر ہے جو ایک مرتبہ فعل کے واقع ہونے کو ظاہر کرے اور اسم نوع وہ ہے جو فعل کی ہیئت اور نوع کو بتلائے۔ ثلاثی مجرد سے اسم مرة کا وزن فعلہ کے وزن پر آتا ہے جیسے ضَرْبَتْ ضَرْبَةً، جَلَسَتْ جَلَسَةً۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے جس باب کا اسم مرة بنانا مقصود ہو اسی باب کے مصدر کے وزن پر تاء کی زیادتی کے ساتھ لاتے ہیں جیسے اِنْفَتَتْ اِنْفَاتَةً، اِنطَلَقَتْ اِنطَلَاقَةً، اور اگر ثلاثی وغیرہ کے مصادر کے آخر میں تاء ہو تو اسم مرة لانے کی صورت میں کسی ایسی چیز کا لانا ضروری ہے جس سے وحدت ظاہر ہو جیسے ضربتہ ضربية واحدة، قاتلتہ مقاتلة، لا غير وما انفقت اليه الا انفاتة واجبة اجابة فقط۔

اسم نوع کا وزن ثلاثی مجرد سے فعلتہ کے وزن پر جیسے وقف وقفة الاسد ومشي مشية المختال۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم مرة کے وزن پر جیسے حَسَنٌ اِنطَلَاقَةً، قَبِيحٌ المَعاشِرَةَ

کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے اور صفتِ مشبہ صرف ابوابِ لازمہ سے آتا ہے جیسے مطمئن۔ مستقیم

اسم تفضیل

اسم تفضیل وہ ہے جو بہ نسبت دوسرے کے موصوف کی صفت کی زیادتی پر دلالت کرے اس کو فعل التفضیل بھی کہتے ہیں۔ مذکر کا وزن الفعل کا اور مؤنث کا وزن۔ فعلی کا مقرر ہے اور صرف ثلاثی مجرد کے ابواب سے بنتا ہے اور وہ ماوے جو رنگ، عیب یا حلیہ پر دلالت کرتے ہوں ان سے اسم تفضیل کا صیغہ نہیں آتا بلکہ اسی وزن پر صفت کا صیغہ آتا ہے۔ وہ ابواب یا وہ ماوے جن سے اسم تفضیل کا صیغہ افعال کے وزن پر نہیں آسکتا ان سے اسم تفضیل کے معنی کو ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اشد یا اکثر یا انہی جیسے الفاظ کے بعد اس باب کا مصدر منسوب استعمال کرتے ہیں اشد سواداً۔ اشد استخراجا۔

اسم تفضیل کا صیغہ معروف سے اور ثلاثی مجرد سے بنا کرتا ہے لیکن بعض الفاظ بطور شدوذ کے مجہول اور ابواب غیر ثلاثی سے آتے ہیں مثلاً "العور احمد" میں احمد، خمد سے اور "حاتم اعطی من عمرو" میں اعطی سے اور "هَذَا اسْفَرُ اَخْضَرُ مِنْ ذَالِكَ" میں اَخْضَرُ اِخْتَصَرَ سے ماخوذ ہے اور کبھی اسم تفضیل اسم جامد سے بھی آتا ہے جیسے "مابا لبادية انوا منه" میں انواء، نوء سے ماخوذ ہے جس کے معنی پختہ کے ہیں۔

خبر و شراصل میں اخیتر اور اشتر تھے۔ کثرت استعمال کی بنا پر دونوں سے ہمزے ساقط ہو گئے کبھی اصل کے لحاظ سے مع ہمزہ کے بھی آتے ہیں۔

اوزانِ مبالغہ

مبالغہ وہ ہے جو موصوف کی زیارتی صفت پر دلالت کرے اس کے مشہور وزن یہ ہیں :

فَعَالٌ جِيسَ عَلَامٌ۔ نَصَارٌ۔ فَعَالَةٌ جِيسَ عَلَامَةٌ وَفَهَامَةٌ۔ فَوَيْلٌ جِيسَ صِدْقٌ وَ سَكْبَرٌ۔ مَفْعِلٌ جِيسَ مَسْكِينٌ وَ مَغْطِيزٌ۔ مِفْعَالٌ جِيسَ مَكْسَالٌ وَ مَقْدَامٌ۔ فَعْلَةٌ جِيسَ ضَحْكَةٌ وَ ضَجْفَةٌ۔ فَعْلٌ جِيسَ شَرَةٌ وَ حَذِرٌ۔ فَعِيلٌ جِيسَ رَجِيمٌ وَ عَظِيمٌ۔ فَعُولٌ جِيسَ

کوئی ضابطہ نہیں۔ بہت سے مختلف اوزان پر آتے ہیں جیسے قَدْوَمٌ، مَسْكِينٌ، فاس وغیرو۔

اسم فاعل و اسم مفعول

اسم فاعل وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل واقع ہو ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے ضَارِبٌ، قَاتِلٌ، نَاصِبٌ۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع معروف کے وزن پر علامت مضارع کے بجائے یم مضموم لگانے سے بنتا ہے اور مائل آخر کسور ہوتا ہے جیسے مَجْتَنِبٌ، مُسْتَخْرَجٌ، مُصَرَّفٌ۔

اسم مفعول وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے مَنضُوزٌ، مَضْرُوبٌ، مَفْتُوحٌ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع مجہول کے وزن پر علامت مضارع کے بجائے یم مضموم لگانے اور مائل آخر کو مفتوح کر دینے سے بنتا ہے جیسے مَقْبَلٌ، مَكْرُومٌ، مَدْحُوحٌ

تنبیہ (۱) قیاس کا تقاضا ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کا اشتقاق اپنے ہی فعل سے ہو خواہ مجرہ ہو خواہ مزید۔ لیکن کچھ الفاظ بطور شدوذ کے دوسرے سے مشتق ہیں۔ مثلاً اَفْحَلٌ سے مَاجِلٌ۔ اَمْلَحٌ سے مَالِحٌ۔ اَبْفَعٌ سے يَابِغٌ۔ اَعْطَبٌ سے عَاطِبٌ۔ اَحْبَبٌ سے مَعْخُوبٌ۔ اَجَنَّةٌ سے مَجْنُونٌ۔ حَمَّةٌ سے مَحْمُومٌ۔ اَزْكَمَةٌ سے مَرْكُومٌ۔ اَسَلَةٌ سے مَسْلُومٌ۔

(۲) اسم مفعول مصدر میںی طرف زمان و مکان ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے سب ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ امتیاز قرآن کی بناء پر ہوتی ہے۔

صفت مشبہ

صفت مشبہ وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں صفت بطور ثبوت کے ہو۔ ثلاثی سے اس کے اوزان سماوی ہیں مثلاً حَسَنٌ، كَرِيمٌ، لَيِّنٌ، سَهْلٌ، صَغْبٌ، لَقِيَانٌ، غَضْبَانٌ، كَسُولٌ، عَطَشِيٌّ، رُؤْفٌ اگر مادہ کی دلالت لون یا عیب یا حلیہ پر ہو تو اس کے لیے وزن الفعل کا ہے جیسے اَمْتَوْدٌ، اَعْوَجٌ، اَبْلَحٌ اور ثلاثی مجرد

اگرچہ ان کے آخر میں ان علامات میں سے کوئی علامت ہو چھے
طلحة، نخلہ، ارطی وغیرہ۔

مؤنث کی دو قسمیں ہیں مؤنث لفظی، مؤنث معنوی، مؤنث
لفظی وہ ہے جس میں علامت تانیث پائی جائے جیسا کہ اوپر کی
مثالوں سے ظاہر ہے۔

مؤنث معنوی وہ ہے کہ جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو اور
اسے اہل زبان مؤنث مانتے ہیں۔

وہ سارے اسماء جو مؤنث کے اہلام ہوں جیسے مریم زینب
وغیرہ یا وہ اسماء جو طبقہ اثناث کے ساتھ مختص ہوں، جیسے اُخت، ام
وغیرہ یا وہ سارے اسماء جو شر اور قبیلہ کے نام ہوں جیسے شام، مصر،
قریش وغیرہ۔ یا اعضاء انسانی میں سے تمام وہ اعضاء جو دو دو ہوں
سب مؤنث معنوی ہیں لیکن اخیر کا حکم اکثری ہے، اس لیے کہ
صدق، مرفق، حاجب، حد، مؤنث نہیں۔

ان کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ مؤنث ہیں جن کو ائمہ لغت
نے جمع کیا ہے۔ (مولانا ذوالفقار احمد صاحب بھوپالی مرحوم و مقور کی
کتاب المبتکر فی ما ینعلق بالمؤنث والمذکر اس سلسلہ میں بہت
جائع کتاب ہے) یہاں پر سارے کا استقصاء تو بہت دشوار ہے،
مشہور اسماء درج ذیل ہیں:

اثنان، اذن، ارض، ارنب، اروئی، است، اصبع، افعی،
القی، بئر، باع، بنصر، ثعلب، جحیم، جہنم، حرب، خنصر،
دار، دبیر، ذراع، رجل، رخی، ریح، سعیر، سقر، سن، ساق،
شمس، شمال، ضبع، عروض، عصا، عقب، عین، غول،
فاس، فخذ، فلک، قدم، قدوم، قوس، کاس، کسف، کرش،
کف، نار، نعل، ناب، ورك، ید، یمن، ینبوع۔

ہوا کے لیے جو اسماء ہیں (مثلاً بقاء، قبول، جنوب، دیور، شمال،
بیوت، حرور، سموم، صرصر، کباء) وہ بھی مؤنث سمائی ہیں، ابن
الانباری فرماتے ہیں الريح مؤنثة لاعلامه فیها وكذلك سائر
اسمائھا الا الاعصار فانہ مذکر۔

ان کے علاوہ کچھ اسماء ہیں جن میں تذکیر و تانیث دونوں جائز
ہیں ان میں سے مشہور یہ ہیں: ابط، ابہام، ازار، بلد، جراد، حال،
ہانوت، خمر، درع، دلو، روح، زقاق، سمیل، سرنی، سراویل، سلاح،
سکین، سلم، سلم، ساء، سوت، صاع، صغی، طرس، طریق، عجز، عقد،

کذوب، وڈوز، فاجلة، جیسے زاویة۔ فعل، جیسے غفل۔ فعولة
جیسے فؤولة۔ مفعول جیسے مخزوب۔ فاعول جیسے فاوزوق۔ فَعَال
جیسے کُتِبَ۔ مبالغہ اور ان سمائی ہیں اور صرف ثلاثی مجرہ سے آتے
ہیں لیکن دَرَاك، اَدْرَاك سے۔ معطاء اعطی سے۔ مہوان اہان
سے وِخْسان، احسن سے۔ وِثْلَاف، اَنْلَف سے وِثْلَاق۔ اَمْلَق
سے وِغْلَاف، اَخْلَف سے اور سَمِيعَ اَسْمَع سے۔ لَذِيوْ اَلَّذَر
سے۔ زَهُوق۔ اَرْهَق سے شاذ ہیں۔

تنبیہ

(۱) بعض الفاظ مبالغہ میں تانیث کے لیے نہیں بلکہ تاکید
مبالغہ کے لیے ہے جیسے علامہ، فہامة
(۲) فعیل اگر فاعل کے معنی میں ہو تو مذکر و مؤنث میں
فرق کیا جائے گا۔ خواہ موصوف کا ذکر ہو یا نہ ہو جیسے "رجل
نصیر، امرأة نصیرة"۔ "جاء نصیر و نصیرة"۔

(۳) فعیل اگر مفعول کے معنی میں ہو تو موصوف کے ساتھ
مذکر و مؤنث میں ایک ہی حالت ہوگی جیسے "زید قتیل"۔ و انت
المرأة جریما اور بغیر موصوف کے فرق کیا جائے گا جیسے جاء
حبیب و حبیبہ۔

(۴) فاعول اگر فاعل کے معنی میں ہو تو موصوف کے ساتھ
مذکر و مؤنث دونوں میں ایک ہی جیسے یحییٰ البتول، مریم البتول اور
موصوف نہ ہو تو فرق کیا جائے گا۔ جیسے جاء بتول و بتولة اور اگر
مفعول کے معنی میں ہو تو مذکر و مؤنث میں فرق کیا جائے گا خواہ
موصوف ہو یا نہ ہو جیسے "هذا رسول و تلک رسولة۔ و جاء
رسل و رسولة۔"

مذکر و مؤنث

اسم مذکر میں کسی علامت کی ضرورت نہیں۔ مؤنث کی تین
علامتیں ہیں۔ تاء جیسے ظلمة، قوة، نعمة، قدرة، الف مقصورہ
جیسے عذری، فضلی، کبریٰ، عظمی الف ممدودہ جیسے حمراء،
سوداء، بیضاء، زرقاء۔

یہ تینوں علامتیں اسم کے آخر میں زائد ہوتی ہیں ہر وہ اسم
جس کے آخر میں ان تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک ہو وہ
مؤنث ہے لیکن وہ اسماء جو مردوں کے نام ہوں مذکر ہی رہتے ہیں

اور اگر ہمزہ اصلی ہو تو اس وقت بھی باقی رکھنا ضروری ہے جیسے لالا سے لالا ان۔ فزّاء سے فزّاء ان۔
اور اگر ہمزہ نہ تو اصلی ہو اور نہ تانیث کے لیے تو دونوں صورتیں جائز ہیں، ہمزہ کو واؤ سے بدلنا بھی اور باقی رکھنا بھی جیسے
سمااء سے سمااء ان اور سماوان۔

ایسے اسماء جن کا لام کلمہ مزروف ہو اور اس کے عوض میں کچھ نہ ہو تو تشبیہ بنانے میں لام کلمہ واپس آئے گا جیسے ”اب“ کہ اصل میں ابو تھا تشبیہ کی حالت میں ابوان ہو گا ایسے ہی اخوان، حموان، غلدوان لیکن ہم اور ید میں واپس نہیں آئے گا۔ لھمان اور یدان ہی کہا جائے گا۔

اور ایسے اسماء جن کے مزروف کے عوض میں کچھ نہ ہو تو تشبیہ اپنی حالت پر بنایا جائے گا مثلاً سنة، ابن، اسم ہیں مستفان، ابنان، اسمان کہیں گے۔ کچھ ایسے اسماء ہیں جن کا تشبیہ نہیں آتا۔ مثلاً: بعض، اجمع، معط، کل، اور عرب، ديار، اور اسماء عدد اور اسم تفضیل جس کا استعمال من سے ہو جیسے الیدان الفضل من الرجلین۔

جمع

جمع کی دو قسمیں ہیں جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا وزن باقی رہے زیادتی جو کچھ ہو وہ آخر میں اور جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے کچھ نہ کچھ تغیر ہو جائے جمع سالم کی دو قسمیں ہیں جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔
جمع مذکر سالم

جمع مذکر سالم وہ ہے جس میں کلمہ کے آخر میں حالتِ رفعی میں واو ماقبل مضموم اور حالتِ نصبی و جری میں یاء ماقبل مکسور اور ان دونوں کے بعد نون ہو جیسے ”جاء مسلمون رأیت مسلمین ومررت بمسلمین“۔

اس وزن پر جمع بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اس محض ہو صفت کے معنی ملحوظ نہ ہوں تو تاء تانیث سے غلطی ہو اور مرکب نہ ہو۔ اسی لیے طلحة باجوہ دیکھ ذکر کا علم ہے مگر واو نون سے جمع نہیں آئے گا اسی طرح معد کرب اور حبلک وغیرہ میں یہ وزن نہیں آئے گا، بلکہ جمع بنانا ہو تو لفظ ذکی جمع بنا کر اس کلمہ کی طرف

عقاب، عقرب، منق، عجبوت، فردوس، فرس، فہر، قہر، قفا، قیس، کعبہ، السان، مسک، ملح، منبجیح، موسیٰ، نفس، وراء، انہی کے ساتھ حروفِ حمّی کے اسماء بھی لاحق ہیں۔

ثنی

ثنی وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے۔ کسی اسم کو ثنی بنانا ہو تو اس کے آخر میں حالتِ رفعی میں الف اور حالتِ نصبی و جری میں یاء ماقبل مفتوح اور دونوں حالتوں میں نون مکسور لائیں گے۔ جیسے ”جاء الرجلان“۔ رابت الرجلین و مررت بالرجلین۔

اگر کوئی علم مرکب اضافی ہو تو جزء اول یعنی مضاف کو ثنی لائیں گے جیسے ”عبدالاحد، عبدالرحمن“ اور اگر مرکب بنائی یا مرکب استادی ہو تو اپنی حالت پر ہیں گے اور ان سے پہلے مذکر میں ذوا اور مؤنث میں ذواتا لائیں گے۔ جیسے ذوا معدی کرب، ذواتا بعلبک۔

اسم مقصود (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں یاء ماقبل مکسور ہو جیسے القاضی) میں اگر یاء حذف ہو گئی ہو تو تشبیہ کی حالت میں پھر لوٹ آئے گی جیسے رام رامیان، داع داعیان۔

اسم مقصود (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں الف ہو اور اس کے بعد ہمزہ نہ ہو جیسے عصار، رجب) میں اگر الف تیسری جگہ ہو اور کسی سے بدل کر آیا ہو تو تشبیہ بنانے کی حالت میں تو اصل کی طرف لوٹ جائے گا جیسے عصار سے عصوان۔ فنی سے فنیان۔

اور اگر چوتھی جگہ یا اس سے زائد ہو تو یاء سے بدل جائے گا جیسے ذکریان، قہقرآن، خوزلان شاذ ہیں، قیاس کا تقاضا تھا کہ قہقرہیان، خوزلیان ہوتے۔

اسم محدود (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں ہمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ ہو جیسے صفراء خضراء) میں الف اگر تانیث کے لیے ہو تو ہمزہ کو واؤ سے بدل لیں گے جیسے خضرا سے خضراوان۔ بشرطیکہ الف سے پہلے واؤ نہ ہو، اور اگر ہو تو ہمزہ کا باقی رکھنا ضروری ہے تاکہ دو واؤ جمع نہ ہو جائیں۔ جیسے عشاء سے عشاء ان۔

تفرقات اور بعض کی جمع جمع کسرتی ہے جیسے اساکل، قناصل، بطارک، کراولہ۔

تنبیہ :- اگر کلمہ ثلاثی ہو اور اس کا مین کلمہ صحیح ہو اور فَعْل اور فَعْلَة کے وزن پر ہو تو جمع بناتے ہوئے مین کلمہ کو فتح دینا ضروری ہے۔ جیسے تمرات۔ زَحْمَة وَحَمَات۔

اور اگر فَعْلُ یا فَعْلُ کے وزن پر ہو تو فتح دینا ساکن رکنا اور فاکلمہ کی حرکت جیسی حرکت دینا بھی جائز ہے جیسے کِسْوَة سے کِيسِرَات، کِيسِرَات، کِيسِرَات، کِيسِرَات، حُجْرَة سے حُجْرَات، حُجْرَات، حُجْرَات۔

اور اگر کلمہ اجوف ہو تو مین کلمہ جمع میں ہمیشہ ساکن رہے گا خواہ فاکلمہ کی حرکت کیسی ہی ہو جیسے جَوْرَة سے جَوْرَات، بیعة سے بیعات

اور اگر ناقص ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحیح کا ہے جیسے رَمِيَة سے رَمِيَات اور رُقُوَة سے رُقُوَات، زُقُوَات۔ لیکن اگر فاکلمہ کسور اور لام کلمہ داوی ہو تو صرف فتح دینا اور ساکن رکنا جائز ہے اور ہم شکل فاینانا جائز نہیں جروات شاذ ہے۔ اسی طرح اگر فاکلمہ مضموم ہو اور لام یائی ہو تو بھی دونوں صورتیں ہوں گی اجتہاد جائز نہیں۔

اور اگر کلمہ مدغم ہو تو جمع بناتے ہوئے لک ادغام نہیں ہو گا۔ جیسے حَمَمَة سے حَمَمَات۔ عَزَة سے عزات۔

جمع کسر

اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ جمع کسورہ ہے جس میں واحد کا وزن اپنی حالت پر باقی نہ رہے کچھ نہ کچھ تغیر ہو جائے۔ اس تغیر کی تین صورتیں ہیں کبھی تو زیادتی سے جیسے زَجَل سے رجال۔ کبھی حذف سے جیسے رسول سے رُسُل۔ کتاب سے کتب اور کبھی محض حرکت کی تبدیلی سے جیسے اَسَد سے اُسُد۔ بَغْت سے بُغْت۔

جمع کسور کی دو قسمیں ہیں: جمع قلت، جمع کثرت۔

جمع قللہ وہ ہے جس سے تین سے دس تک کی تعداد معلوم ہوتی ہے اس کے چار وزن ہیں:

أَفْعَال جیسے جُفْلٌ سے أَطْفَالٌ۔ أَفْعَال جیسے نر سے انہر۔

أَفْعَلَة جیسے رَغِيف سے أَرْغَفَة۔ لَفْعَلَة سے لَفْعَل جیسے فنی سے

فنیہ۔

اضافات کسرت کے مثلاً ذومعدی کرب، ذود، طبک۔

اور اگر صفت ہو تو شرط یہ ہے کہ مذکر ہو، ذوی العقول میں سے ہو اور فاعل فاعلان یا فعلان فعلی کے وزن پر نہ ہو اور ایسا اسم بھی نہ ہو جس میں مذکور و مؤنث دونوں برابر ہوں جیسے جویح و صبور اور ایسا بھی نہ ہو کہ تاء تانیث سے التباس کا خوف ہو جیسے علامۃ کچھ ایسے اسم ہیں کہ ان میں شرطیں نہیں پائی جاتیں مگر جمع ذکر سالم کے وزن پر ان کی جمع آتی ہے۔ مثلاً ارضون، عالمون، عِلْمُون، اهلون، بنون، سنون اور اسی طرح ہر وہ کلمہ ثلاثی جس کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا ہو اور اس کے عوض میں تاء لایا گیا ہو اس کی جمع بھی واؤ لون سے آتی ہے جیسے عضون، سیون، منون۔

جمع مؤنث سالم

جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف و تاء کی زیادتی ہو جیسے ثمرات و شجرات۔ اگر مفرد کے آخر میں پہلے ہی سے تاء ہو تو جمع بناتے ہوئے اس کو حذف کر دیتے ہیں جیسے طالبۃ سے طالبات، مسلمۃ سے مسلمات۔

اس وزن پر مندرجہ ذیل اسماء کی جمع آتی ہے۔

(۱) ہر وہ اسم جس کے آخر میں تاء ہو جیسے ثمرۃ سے ثمرات، شجرۃ سے شجرات، امرأۃ، شاة، قللۃ، أمۃ، مِلۃ، شفة اس سے مستثنیٰ ہیں۔

(۲) ہر وہ اسم جو مؤنث کا علم ہو جیسے زینب سے زینبات،

مریم سے مریمات۔

(۳) ہر وہ اسم جو مصدر ہو اور تین حرف سے زائد ہو جیسے تفرقات اختیارات، امتیازات۔

(۴) ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف تانیث مقصورہ یا ممدودہ ہو۔ جیسے صحراء سے صحرات، حی سے حیات۔

اور ان اسماء مقصورہ یا ممدودہ میں الف کی تبدیلی یا بقا کے

متعلق وہی صورتیں اختیار کی جائیں گی جن کا ذکر فنی میں ہو چکا

ہے۔ اسماء مذکورہ بالا کے علاوہ میں اس وزن پر جمع کا آنا سماں ہے

جیسے سلوات، ارضیات، سجات، حلمات، شرادات، ثلثات،

اہمات، سرایعات وغیرہ۔

الفاظ اچھے میں سے بعض کی جمع اسی وزن پر آتی ہے جیسے

اجزۃ کی جمع اریزہ۔

(۸) فعالیل ہر اس رباعی کی جمع جس کے حرف آخر سے پہلے مدہ ہو جیسے قرطاس کی جمع قرطاس۔ عصفور کی جمع عصفایر۔

(۹) مفاعیل وفعل اور مفعلة کی جمع جیسے مبضع کی جمع مباضع۔ مکنسة کی جمع مکانس۔

(۱۰) مفاعیل مفاعیل اور مفعیل مفعول کی جمع مفتاح کی جمع مفتاح۔ مسکین کی جمع مساکین، مقدور کی جمع مقادیر۔

اسم جمع و شبہ جمع

اسم جمع وہ ہے جس سے جمع کے معنی ظاہر ہوں اور اس کے لیے اسی مادہ سے مفرد نہ ہو جیسے خیل، قوم، ربط، حیث۔

شبہ جمع وہ ہے جو جمع کے معنی کو ظاہر کرے اور واحد جمع میں تاء کی وجہ سے امتیاز ہو مثلاً: ورق کہ اس کا مفرد ورقہ ہے، شمر کہ اس کا واحد شمرہ ہے۔ اور اسی قبیل سے ہے وہ کہ واحد اور جمع میں یاء نسبتی کی وجہ سے فرق ہو جیسے الروی۔ رویوں میں کا ایک۔ الجوی۔ مجوسیوں میں سے ایک۔ لیکن اس کا لحاظ رہے کہ پہلا غیر ذوی العقول کے لیے اور دوسرا ذوی العقول کے لئے۔

ہر اسم جمع اور شبہ جمع کی جمع مفردات کے طرز پر آتی ہے جیسے قوم کی جمع اقوام، رفقہ کی جمع رفق، نجم کی جمع انجم اور روم کی جمع اروام۔

صفت

صفت ہر وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی وصف ہو اس کی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) اسم فاعل، (۲) اسم مفعول (۳) صفت مشبہ، (۴) اسم تفضیل (۵) اوزان مبالغہ۔

صفت کی تائید

صیغہ صفت کو اگر مؤنث بنانا ہو تو آخر میں تا لگا دو، جیسے صادق صادقہ، عالم، عالمہ، لیکن وہ صفت جو نفعان یا افضل کے وزن پر یا اسم تفضیل ہو اس کے احکام جدا گانہ ہیں۔

(۱) جو صیغہ صفت کا نفعان کے وزن پر ہو اس کے لیے مؤنث فعلی کے وزن پر آتی ہے جیسے عطشان سے عطشی، سکران سے سکری، ظمان سے ظمائی لیکن بعض کلمات ایسے ہیں کہ ان کی تائید تاء کے ساتھ آتی ہے اور وہ یہ ہیں: البان، حبلان، خصمان، سخنان، صہ جان، قشہ ان،

افعال کی دوبارہ جمع افعال کے وزن پر ہے جیسے انعام کی جمع اناعم اور افعال کی جمع افعال کے وزن پر جیسے اکل کی جمع اکال، آتی ہے اس کو جمع حسی المبرح کہتے ہیں اور اس سے مراد تمام وہ اوزان ہیں جن میں الف جمع کے بعد دو حرف متحرک یا تین حرف ہوں اور درمیان میں یاء ساکن ہو جیسے مساجد، منابر، اناعم، قنادیل۔

(تبیہ) جمع قلت پر الف لام استغراق داخل ہو اور یا ایسی چیز کی طرف اضافت ہو جس کی دلالت کثرت پر ہو تو کثرت کا فائدہ دیتی ہے جیسے ایہا الشیوخ لا تکتونوا کالفتیة۔ احفظوا انفسکم۔

جمع کثرت وہ ہے جو تین سے زیادہ الی غیر التمازیج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے اوزان بہت ہیں، صرف چند قیاسی ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ جمع سالم کی دونوں قسمیں بعض کے نزدیک جمع قللة کا فائدہ دیتی ہیں اور بعض کے نزدیک مطلق جمع کا بغیر قلت و کثرت کا لحاظ کیے ہوئے جس کا مال یہ ہے کہ قلت و کثرت دونوں کا فائدہ دیتی ہیں۔

جمع کثرت کے قیاسی اوزان

(۱) فَعْلٌ فَعْلَةٌ کی جمع جیسے غَلْبَةٌ کی جمع غَلَبٌ۔ صورت کی جمع صور صُورَةٌ کی جمع صُورٌ۔

(۲) فَعْلٌ فَعْلَةٌ کی جمع جیسے قِطْعَةٌ کی جمع قِطْعٌ۔ لیکن فَعْلَةٌ کی جمع کبھی فَعْلٌ بھی آتی ہے جیسے حلیۃ کی جمع حلی۔ لہجہ کی جمع۔ لہجی۔

(۳) فعالل ہر رباعی مجرد کی جمع جیسے بلبل کی جمع بلابل، سندس کی جمع حناس، اور خماسی مجرد و مزید کی جمع بھی جیسے سفرجل کی جمع سفارج، اور خندریس کی جمع خندارس۔

(۴) ہواعل ہر ثلاثی کی جمع جس کے فاکلہ کے بعد واؤ یا الف کی زیادتی ہو جیسے جوہر کی جمع جواہر۔ خاتم کی جمع خواتم۔

(۵) فاعل مؤنث کی جمع جس کا تیسرا حرف مدہ ہو جیسے صحیفہ کی جمع صحائف، رسالہ کی جمع رسائل۔

(۶) الفاعل المفعول (بشیت العزۃ) کی جمع الفاعل اصبع کی جمع لہص اصابع، أملة کی جمع أمائل، اجدل کی جمع اجادل۔

(۷) الفاعیل المفعول اور المفعولہ کی جمع جیسے اسلوب کی جمع سالیب

مرضع، حامل اور حدوث کے معنی کا لحاظ ہو تو تاء آتی ہے جیسے
ارضعت فہی مروضعة۔

صفت کی جمع

اگر صفت کا مینہ ذوی العقول کے لیے ہو خواہ مذکر خواہ
مؤنث اس کی جمع جمع سالم لاتے ہیں جیسے رجال صادقون، نساء
صادقات جو صفت الفعل فعلاء یا فعلان فعلی کے وزن پر یا اسم
فاعل ناقص کا یا فاعیل بمعنی مفعول ہو ان کے احکام جدا گانہ ہیں۔
(۱) جو مینہ صفت کا اصل فعلاء کے وزن پر ہو اس کی جمع فعل کے
وزن پر آتی ہے جیسے امرئ حمیر۔ ازرق کی زرقی، اخرج کی
خرج، اعفی کی عمی لیکن اگر کلمہ اجوف یائی ہو تو تاء کو کسو
دے دیتے ہیں۔ عید، بیض، جیف، اخید، ایض، ایف کی
جمع۔

(۲) جب صفت فعلان فعلی کے وزن پر ہو تو اس کی جمع فعالی یا
فعال کے وزن پر آتی ہے جیسے سکاری و حباری سکوران و
حبران کی جمع اور ججاج و غضاب جو عمان اور غضبان کی
جمع۔

(۳) اسم فاعل ناقص کی جمع فَعْلَةٌ کے وزن پر آتی ہے جیسے دعاة
رماة، غزاة کہ اصل ان کی دَعْوَةٌ زُفْيَةٌ غزویہ ہے۔

(۴) ایسے مادہ سے جو بلاکت، درد یا تَشْتُّش کے معنی پر دلالت کرے
اس سے فعل بمعنی مفعول کی جمع فعلی کے وزن پر آتی ہے
جیسے جرجع کی جمع جرجعی، صریح کی جمع صریحی، شیت کی جمع شیتی
اور اسی پر حمل کیا گیا ہے اس کو بھی جو معنی میں اس سے
مشابہت رکھتا ہو اور فاعیل بمعنی فاعل ہو جیسے مریض کی جمع
مرضی — یا فعل کے وزن پر ہو جیسے زمن کی جمع زمینی یا فاعل
کے وزن پر ہو جیسے ہالک کی جمع ہالکی۔

صفت کی جمع کے بقیہ قیاسی اوزان چھ ہیں۔ فَعَالٌ، فَعْلَةٌ، فَعْلٌ،
فَوَاعِلٌ، فَعْلَاءَةٌ اور اِجْعَاءٌ۔

(۱) فَعَالٌ اور فَعْلَةٌ ہر اس اسم کی جمع ہے جو فاعل کے وزن پر ہو اور
اس کا لام کلمہ صحیح ہو جیسے زانو کی جمع زَوَازِر۔ صائم کی جمع
صَوَامٍ اور کتاب کی جمع کتبا، ظالم کی جمع ظالمین۔

فَعْلَةٌ کا وزن عموماً اس فاعل کی جمع کے لیے ہے جو اجوف صلا
ہو اور کسی پٹھے پر دلالت کرتا ہو جیسے مسافة، باعة، حاكمة

مَصَانٌ، مَوْتَانٌ، نَدَمَانٌ، لَصْرَانٌ اور بعض کلمات کی تانیف
فعلی کے وزن پر بھی اور تاء کے ساتھ بھی آتی ہے جیسے
عطشان سے عطشی اور عطشانة، غضبان سے غضبی
اور غضبانة۔

(۲) صفت کا مینہ جو الفعل کے وزن پر ہو اس کی تانیف فعلاء کے
وزن پر ہو جیسے ایض سے بیضاء، اسر سے اسراء۔

(۳) اسم تفضیل کے لیے مؤنث کا مینہ فعلی ہے جیسے اکرم سے
کُرْمی۔ اصغر سے صغریٰ لیکن اگر کلمہ ناقص وادی ہو تو اول
کو یاء سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے احملی سے احملاء۔ اولیٰ سے
ولیات۔

کچھ صفت کے بیٹے ایسے ہیں جن میں تذکیر و تانیف برابر
ہے اور وہ یہ ہیں:

(۱) فَعَالَةٌ جیسے رَجُلٌ، فَهَامَةٌ، امْرَأَةٌ، فَهَامَةٌ۔

(۲) مِفْعَالٌ جیسے رَجُلٌ مِفْعَالٌ، امْرَأَةٌ مِفْعَالٌ اور مِفْعَالَةٌ شاز
ہے۔

(۳) مِفْعِيلٌ جیسے رَجُلٌ مِفْعِيلٌ، امْرَأَةٌ مِفْعِيلٌ اور مِسْكِينَةٌ شاز
ہے۔

(۴) مِفْعَلٌ جیسے رَجُلٌ مِفْعَلٌ، امْرَأَةٌ مِفْعَلٌ۔

(۵) فَعْلَةٌ اور فَعْلَةٌ جیسے رَجُلٌ ضَحْكَةٌ امْرَأَةٌ ضَحْكَةٌ اور اگر
عین کو فتح دے دیا جائے تو فاعلیت کے معنی ہوں گے جیسے
ضحكة۔ بہت ہنسنے والا۔ ہمزہ۔ بہت عیب لگانے والا ہزاقہ۔
بہت ٹھٹھا کرنے والا۔

(۶) فعل جو فاعل کے معنی میں اور فاعیل جو مفعول کے معنی میں ہو
جیسے رَجُلٌ صَبُورٌ، غُلَامٌ قَبِيلٌ، امْرَأَةٌ قَبِيلٌ لیکن یہ اس
وقت ہے جبکہ موصوف معروف ہو ورنہ تاء کے ساتھ فرق
کرنا ضروری ہے ہاں عدوۃ شاز ہے۔

کبھی فاعیل جو مفعول کے معنی میں ہو باوجود معروف
ہونے کے مؤنث کو تاء کے ساتھ لاتے ہیں خاتمة سعیدة،
عاقبة حمیدة اور کبھی فاعیل فاعل کے معنی میں مؤنث بغیر تاء
کے جیسے امْرَأَةٌ عَقِيمٌ، نَجْحَى العظام وہی زینم۔

جو صفت کہ طبقہ اثاث ہی کے ساتھ مخصوص ہیں جب معنی
حدوث کا لحاظ نہ ہو تو عموماً آخر میں تاء نہیں آتی جیسے طالق،

اور اگر چوتھا حرف ہو اور اصلی ہو تو واؤ سے تبدیلی زیادہ ہے جیسا کہ مزہبی سے مرموی اور حذف کرنا بھی جائز ہے جیسے مزہبی اور اگر اصلی نہ ہو بلکہ زائد ہو تو خواہ تانیث کے لیے ہو خواہ الحاق کے لیے تو وہاں پر حذف مختار ہے جبلی اور ڈھرویٰ کہا جائے گا اور واؤ سے بدل دیں تو یہ بھی جائز ہے اس صورت میں جبلی 'ذہرویٰ' کہا جائے گا لیکن الف تانیث کو جب واؤ سے بدلتے ہیں تو اکثر اس سے پہلے ایک الف بڑھا دیتے ہیں جیسے طوباوی۔ ذُیباوی۔

اور اگر الف مقصورہ ایسے اسم میں واقع ہو جس کا دوسرا حرف متحرک ہو تو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے مصطفیٰ سے مُصْطَفِیٌّ اور بعض واؤ سے بدلنا بھی جائز کہتے ہیں اس صورت میں کہا جائے گا مُصْطَفَوِیٌّ اگر اسم کے آخر میں الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو تو واؤ سے بدل دیا جائے گا جیسے صفراء سے صفراوی۔ بیضاء سے بیضاوی اور اگر اصلی ہو تو اس کا باقی رکھنا ضروری ہے جیسے قراء سے قرآنی۔ ابتداء سے ابتداء۔ انتاء سے انتائی۔

اور اگر اصلی نہ ہو تو باقی رکھنا اور واؤ سے بدلنا دونوں جائز ہے جیسے رداء سے روانی یا رداوی، ساء سے سائی یا سلاوی۔

اور اگر اسم مقصور ہو اور یاء تیسری جگہ میں ہو تو اس کو واؤ سے بدل دیتے ہیں اور اس کے ماقبل کو فتح دیتے ہیں جیسے عی سے عموی۔ اور اگر چوتھی جگہ یا اس سے زائد ہو تو حذف کرنا جائز ہے جیسے قاضی سے قاضی۔ ماضی سے ماضی اور واؤ سے بدلنا بھی جائز ہے اور اس صورت میں ماقبل کو فتح دیا جائے گا کہا جائے گا قاضوی، ماضوی اور اگر پانچویں جگہ یا اس سے زائد ہو تو حذف کرنا ضروری ہے جیسے مستعلی سے مستعلی، معتدی سے معتدی۔

اگر کلمہ فعیل کے وزن پر ہو اور آخر میں حرف صحیح ہو تو وزن اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ جیسے حنیف سے حنیفی غلیل سے غلیلی اور اگر ناقص ہو تو ایک یاء کو حذف کر دیا جائے گا اور دوسرے کو واؤ سے بدل دیا جائے گا اور ماقبل کو فتح دیا جائے گا جیسے غلیبی سے غلیوی۔ غلیبی سے غلیوی۔

اور اگر فعیلہ کے وزن پر ہو مضاعف اور متصل نہ ہونے کی صورت میں یاء کو حذف کر دیا جائے گا اور ماقبل مفتوح ہو گا جیسے

صاحبة کہ اصل میں سوقة، بیعة، حیکة، صوغة تھے۔

(۲) فَعْلٌ بھی فاعل کی جمع جیسے شَحْدٌ ساجِد کی جمع نُؤْمٌ نائم کی جمع جُؤْعٌ جانع کی جمع۔

(۳) فَوَاعِلُ فاعلة کی جمع جیسے صواحب صاحبة کی جمع عواذل، عاذلة کی جمع اور فاعل کے وزن پر اس فاعل کی جمع بھی آتی ہے۔ جو طبقہ اثاث کے صفات کے لیے ہو جیسے عواقر، عاقر، عاقر کی جمع حوامل حاصل کی جمع طوائق طالق کی جمع۔

(۴) فعلاء فعیل کی جمع جو معنی میں فاعل کے ہو جیسے کرماء کریم کی جمع۔ عَلَمَاءٌ علیم کی جمع۔

(۵) المعلاء فعیل کی جمع جو مضاعف یا معتل اللام ہو جیسے اغنیاء معنی کی جمع اقویا قوی کی جمع۔

مذکر اسم تفضیل کی جمع جمع سالم افطون کے وزن پر آتی ہے جیسے اعظمون اکرمون اور جمع مکسر افعال کے وزن پر جیسے اصاغرو۔ اکابیر

مؤنث اسم تفضیل کی جمع سالم فعیلات کے وزن پر جیسے عظیمات، کرمیات اور جمع مکسر فعل کے وزن پر جیسے ضغیر، کثیر۔ مینذ متنی الجموع کی جمع مکسر تو نہیں آتی لیکن جمع سالم آتی ہے جیسے ضوارب کی جمع ضواربات۔ افاضل کی جمع افاضلون

نسبة

کسی چیز کی طرف نسبت ظاہر کرنے کے لیے اسم کے آخر میں یاء مشدود لائق کرنے کا نام نسبت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ماقبل یاء کو مناسبت کی وجہ سے کسرہ دیا جائے جیسے رجل مضرب۔

اگر اسم ثلاثی مکسور العین ہو تو نسبت کرتے وقت عین کو فتح دیا جائے گا۔ مثلاً فحل میں فحلذی اور ملک میں ملکی کہا جائے گا اور اگر ربائی ہو تو واضح یہ ہے کہ عین پر کسرہ باقی رہے گا۔ جیسے مشرق میں مشرقی مغرب میں مغربی یشرب میں یشری۔

اگر کسی ایسے اسم کی طرف نسبت ہو جس کے آخر میں تاء ہو تو اس کا حذف کرنا ضروری ہے جیسے قاہرہ سے قاہری۔

اگر اسم کے آخر میں تیسرا حرف الف مقصورہ ہو تو واؤ سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے عصا سے عصوی۔ فسی سے فتوی۔

جائز ہے اور انہی واسطی بھی کما جائز ہے۔

اور اگر محذوف کے بدلے میں تاء تانیہ ہو تو تاء کو حذف کر دیا جائے گا اور محذوف کو دوبارہ لایا جائے گا جیسے صنفہ سے سنویٰ لفظ سے لغوی اور زلفہ سے وُزْنُی اور صلۃ سے وصل۔

تشنیہ اور جمع کی طرف نسبت کرنا ہو تو مفرد کی طرف لوٹا دیا جائے گا جیسے عراقین سے عراقی، مسلمین سے مسلمی۔

یہی حکم ہے کہ ان کا جو تشنیہ اور جمع کے ساتھ لاحق ہیں جیسے النہین سے الفنی اور ثنوی۔ عشرين سے عشری، انہین سے انہی۔

ایسے جمع جن کے لیے مفرد نہیں جیسے ابھل و صنادید اور یا مفرد تو ہیں لیکن اسی لفظ سے نہیں جیسے خاطر، مناجذ، نساء، نسبت کرتے ہوئے اپنے حال پر باقی رہیں گے جیسے خاطر، مناجذی، نسائی۔

بعض علماء صرف کے نزدیک جمع کسر نسبت کی حالت میں اپنی وضع پر رہے گا جیسے ملائکہ سے ملائکی۔ ملوک سے ملوکی۔ اور جو جمع کسر ظم ہو گیا ہو وہ بھی نسبت کی حالت میں مفرد کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ جیسے انبار سے انباری، انصار سے انصاری، اہواز سے اہوازی۔

اور مرکب بتائی میں نسبت کرتے ہوئے آخر کا جزء حذف کر دیا جائے گا اور اول جزء کی طرف نسبت کریں گے جیسے بعلعی و معدی جبکہ بعلبک اور معدی کرب کی طرف نسبت کرنا ہو اور کبھی مجموعہ کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے بعلبک و معدی کہلی۔

اور مرکب اضافی کی صورت میں کسی میں جزء اول کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کسی میں جزء ثانی میں جیسے امراء القیس سے امرئی دیر القمر سے دیرانی، عبد الأشہل سے اشہلی، ابو بکر سے بکری عبد مناف سے منافی۔ کبھی مرکب اضافیہ میں پورے کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے عین اہل سے عین اہلی وادی آش سی وادی آشی، عین حور سے عین حوری۔

اور مرکب استنادی میں صدر یعنی جزء اول کی طرف نسبت ہوتی ہے اور بجز یعنی جزء ثانی کو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے کابلہ شرا سے نابطی، ذرحیثا سے ذری۔

ہمنہ سے منی، فریضہ سے فرضی۔ بعض الفاظ میں یاء کا باقی رہنا شاذ ہے جیسے طیبی، سلیمی۔

اور اگر مضاعف یا متصل عین ہو تو کچھ حذف نہیں ہو گا طویلہ کی نسبت میں کما جائے گا طویل اور عزیزہ میں عزیز۔

جو حکم فعلیل و فعلیۃ کا بیان کیا گیا ہے یہی فعلیل و فعلیۃ میں بھی جاری ہو گا جیسے عقیل سے عقیلی۔ قصی سے قُصُوئی۔ قَلْبِلۃ سے قَلْبِلُوئی۔ اُمَیْمۃ سے اُمَیْمُوئی۔

اگر اسم کے آخر میں واو چوتھی جگہ یا اس سے زائد ہو اور اس کے ما قبل ضم ہو تو نسبت کرتے ہوئے واو کو حذف کر دیا جائے گا۔ فلنسوة سے فلنسیٰ اور توقوۃ سے ترقی کما جائے گا اور نہیں تو واو باقی رہے گا جیسے عدو سے عدوی، ولو سے ولوی۔

اگر اسم کے آخر میں یا مشدد ہو اور اس سے پہلے دو حرف ہوں تو یاء کا حذف کرنا ضروری ہے جیسے شافعی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شافعی ہی کما جائے گا اور اسکندریہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسکندری۔

اور اگر یاء سے پہلے ایک ہی حرف ہو جیسے حی تو دوسرے حرف کو فتح دینا اور تیسرے کو واو سے بدل دینا واجب ہے جیسے کہ حی سے حیوی۔

اور اگر دوسری یاء واو سے بدل کر آئی ہو تو نسبت کرتے ہوئے پھر واو ہو جاوے گی جیسے طی سے ظَوِیُّ اگر کسی کلمہ سے آخر حرف کا حرف حذف ہو گیا ہو اور محذوف منہ میں دو حرف باقی ہوں تو نسبت کرتے ہوئے اس محذوف حرف کو واپس لایا جائے گا جیسے اب سے ابوی، اخ سے اخوی۔

لفظ اخت اور بنت کی طرف نسبت تاء کے ساتھ ہوتے ہوئے کما جاتا ہے اختی و بنتی اور بعض حذف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اخوی بنوی اور لفظ ابنۃ کی نسبت میں انبی اور بنوی کما جاتا ہے۔ یہ اور دم جیسے الفاظ میں محذوف کو لوٹا دینا واضح ہے کما جائے گا یَدَوِیُّ ذَوِیُّ اور بغیر واو کے لائے ہوئے بھی نسبت کرنا جائز ہے جیسے یدئی۔ ذوی۔

اور اگر کسی کلمہ میں محذوف کے عوض میں ہمزہ وصل لایا گیا ہو جیسا کہ ابن اور اسم میں تو عوض کو حذف کر دینا اور محذوف کو لوٹانا جائز ہے۔ اسم اور ابن کی نسبت میں سموئی اور بنوی کما

حروف تہجی کے لحاظ سے ان اسماء کے تفصیل جو قواعد نسبت کے خلاف مستعمل ہیں

رُوحَانِيٌّ	رُوحَاءِ	رُوحَاءِ	حُرُورَاءِ	حُرُورَاءِ	أَنْهَاءِ	أَنْهَاءِ
رَازِيٌّ	"	رَعِيٌّ	حَرَمِيٌّ	حَرَمِيٌّ	أَمْوِيٌّ	أَمْوِيٌّ
رُبِّيٌّ	"	رَبَابٌ	حَضْرَمِيٌّ	حَضْرَمِيٌّ	بَدَوِيٌّ	بَدَوِيٌّ
سَهْلِيٌّ	"	سَهْلٌ	خُزَيْمِيٌّ	خُزَيْمِيٌّ	بِحْرَانِيٌّ	بِحْرَانِيٌّ
سَلِيْقِيٌّ	"	سَلِيْقَةٌ	ذُهْرِيٌّ	ذُهْرِيٌّ	بَهْرَانِيٌّ	بَهْرَانِيٌّ
سَلِيْمِيٌّ	"	سَلِيْمَةٌ	ذَرِيٌّ	ذَرِيٌّ	تَهَامِيٌّ	تَهَامِيٌّ
سَلِيْمِيٌّ	"	سَلِيْمٌ	ذَارِيٌّ	ذَارِيٌّ	تَمَلِيٌّ	تَمَلِيٌّ
شَامٌ	"	شَامٌ	رَبَانِيٌّ	رَبَانِيٌّ	تَقْفِيٌّ	تَقْفِيٌّ
شَعْرَانِيٌّ	"	شَعْرٌ كَثِيْرٌ	رَقَبَانِيٌّ	رَقَبَانِيٌّ	جَمَانِيٌّ	جَمَانِيٌّ
صَدْرَانِيٌّ	"	صَدْرٌ كَبِيْرٌ	رَامِيٌّ	رَامِيٌّ	جَدَمِيٌّ	جَدَمِيٌّ
صِنْعَانِيٌّ	"	صِنْعَاءٌ	رَدِيْنِيٌّ	رَدِيْنِيٌّ	جَلُوْلَانِيٌّ	جَلُوْلَانِيٌّ
طَبِيْعِيٌّ	"	طَبِيْعَةٌ	رُوحَانِيٌّ	رُوحَانِيٌّ	خُلَيْبِيٌّ	خُلَيْبِيٌّ
مَرْوَزِيٌّ	"	مَرْوَالشَاهِجَهَانِيٌّ	فُقَيْمِيٌّ	فُقَيْمِيٌّ	طَلَانِيٌّ	طَلَانِيٌّ
مَرْقِيْسِيٌّ	"	اَمْرَاؤَالْقِيْسِ	فُرْهُوْدِيٌّ	فُرْهُوْدِيٌّ	عُمَيْرِيٌّ	عُمَيْرِيٌّ
هَاجِرِيٌّ	"	هَجْرٌ	قَوْمِيٌّ	قَوْمِيٌّ	عَبْدِيٌّ	عَبْدِيٌّ
هَذَلِيٌّ	"	هَذَلِيٌّ	قَرِيْشِيٌّ	قَرِيْشِيٌّ	عَبْسَمِيٌّ	عَبْسَمِيٌّ
نُبَاطِيٌّ	"	اِنْبَاطٌ	كَنْتِيٌّ	كَنْتِيٌّ	عَبْدَرِيٌّ	عَبْدَرِيٌّ
نِبَاطٌ	"					
نَضْرَانِيٌّ	"	نَاصِرَةٌ	لُحْيَانِيٌّ	لُحْيَانِيٌّ	عَبْقِيْسِيٌّ	عَبْقِيْسِيٌّ
يَمَانِيٌّ	"	يَمَنٌ	مُلْجِيٌّ	مُلْجِيٌّ	عَبْدِيٌّ	عَبْدِيٌّ

تصغیر

اسی حالت پر رہے گا جس پر تغیر سے پہلے تھا۔ جیسے ثمرۃ کی تغیر فَمِيْرٌ بشری کی بشری۔ سمرا کی سمیراء۔ سکران۔ سکران۔ غضبان کی غضیبان اگر کلمہ مؤنث معنوی کا ہو تو تغیر بنانے میں تاہ۔

اگر کلمہ مؤنث معنوی کا ہو تو تغیر بنانے میں تاہ مقدرہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے جیسے ارض سے ارضۃ۔ شمس سے شمسۃ لیکن شرط یہ ہے کہ التباس سے امن ہو ورنہ جہاں التباس کا خوف ہو گا ظاہر نہیں کریں گے، مثلاً خمس جبکہ معدود مؤنث ہو تو تغیر میں خمس کہیں گے خمسۃ نہیں تاکہ معدود مذکر کے لفظ خمسۃ کی تغیر سے التباس نہ ہو۔

قلت یا حقاوت ظاہر کرنے کے لیے اسم میں کچھ تغیر کرنے کا نام تغیر ہے۔ ثلاثی مجرد سے فَعِيْل کے وزن پر آتا ہے جیسے کلب سے کلبۃ۔ عبد سے عبید۔ رجل سے رجیل۔ ثلاثی مزید ربائی اور نحاسی سے اگر چہ تھارف مدہ نہ ہو تو فَعِيْل کے وزن پر جیسے جَعْفَر سے جَعْفَرُوْنَ۔ سفرجل سے سفیرج اور اگر مدہ ہو تو فَعِيْل کے وزن پر جیسے فرطاس سے فَرَطِاسٌ مضراب سے مَضْرُوْبٌ اگر اسم کے آخر میں علامت تانیث کا یا الف نون لاء کان ہو تو علامت تانیث یا الف نون سے مثل ہو تو حرف ہو گا وہ

کی تفسیر و زینة و عبدة ہوگی اور اخت اور بنت کی تفسیر اُختیة
نبتة آئے گی۔

شمی اور جمع سالم کی تفسیر اس طرح پر آئے گی مؤمنان کی
مؤمنان، مؤمنون کی مؤمنون، مومنات کی مومنات۔

اسی طرح جمع قلت کی تفسیر ارغفة کی ارغفة ہوگی۔

اور جمع کثرت کی تفسیر بنائے کا قاعدہ یہ ہے کہ مفرد کی تفسیر بنا

کر واو لون لگا دیا جائے گا جیسے غلام کی جمع غلمان کی تفسیر کی

صورت یہ ہوگی کہ غلام کی تفسیر غُلَامِ بنا کر واو لون لگا کر

غلیمون کہا جائے گا۔ اسی طرح شاعر کی جمع شعراء کی تفسیر

شویعون ہوگی اور اگر ذکر لا یفعل یا مؤنث ہو تو آخر میں اسی

طرح الف تاء لگائیں گے جیسے جاریتہ کی جمع جوار کی تفسیر جو ریات

درہم کی جمع دراہم کی درہمات اور مرکب اضافی کی تفسیر اس طرح

پر ہوگی کہ پہلے جزء کی تفسیر بنا کر دوسرے جزء کو اپنی حالت پر چمڑ

دیں گے مثلاً عبد اللہ کی تفسیر عبید اللہ ہوگی۔ اور یہی حالت

مرکب بنائی کی ہوگی جیسے معد ہکوب کی تفسیر معد ہکوب۔

حضر موت کی تفسیر حضر موت، نبطویہ کی تفسیر نبطویہ،

خسمة عشر کی خسمة عشر، بعلبک کی بعلبک۔

اور مرکب اسنادی مثلاً تائب شرکی تفسیر تائب شرکی۔

تنبیہ :

کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی تفسیر خلاف قیاس آتی ہے۔ ابھجر،

بحر کمی۔ انیسان، انسان کی۔ روجل، رجل کی، اصیلال،

اصیل کی۔ عیشیة، عشیة کی۔ اُصیبیة، صبیة۔ اغیلمة

غلمة کی۔ اسی طرح قویس۔ ذریع۔ حریب۔ لعیل۔ عریس۔

ذوید کہ ان سب میں قیاس کے مطابق آخر میں تاء ہونے چاہئے

تھی۔

ہمزہ کی کتابت کے قواعد :

ہمزہ اگر ابتداء میں واقع ہو تو ہمیشہ الف کی صورت میں لکھا

جائے گا جیسے اسماء، ابناء، اکرام، اسی طرح اگر ابتداء میں ہو مگر

اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف متّصل ہو جیسے باجمل، لافضل۔

لیکن لئلا اور لئن اور یومثل اور حینئد میں تخفیف کے لیے

کثرت استعمال کی بنا پر اپنی حرکت کے موافق لکھا جائے گا۔

اور اگر ہمزہ وصل ہو اور فاء یا واو کے بعد واقع ہو تو حذف کر

اگر کلمہ میں حرف علت ہو اور تغلیل ہو چکی ہو تو تفسیر بنانے

میں اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ مثلاً باب کی تفسیر بویب اور

ناب کی تفسیر نیب ہوگی۔ اس لیے کے باب کا الف واو اور ناب

کا الف یاہ تھا اس وجہ سے کہ ان کی جمع ابواب اور انیاب آتی

ہے اور قاعدہ ہے کہ جمع تکمیر اسماء کو اصل کی جانب لوٹا دیتی ہے۔

اور اگر کلمہ ایسا ہو کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا الف واو سے

بدلا ہوا ہے یا یاہ سے تو وہاں پر ما قبل کے ضمہ کا لحاظ کرتے ہوئے

تفسیر میں واو لایا جائے گا۔ جیسے عجاج سے عویج کہا جائے گا۔

لفظ عید کی تفسیر عبید شاذ ہے۔ قیاس کے لحاظ سے عوید

ہونا چاہئے تھا اور اگر واو یاہ بدلے ہوئے نہ ہوں تو اپنی حالت پر

رہیں گے مثلاً سور سے سویر۔ بیت سے بیست۔

اگر اسم کا دوسرا حرف الف زائدہ ہو تو واو سے بدل دیا

جائیگا۔ جیسے خالد سے خولید۔ ضارب سے ضویوب۔

اور اگر تیسرا حرف الف یا واو ہو تو یاہ سے بدل کر یاہ تفسیر

میں مدغم ہو جائے گا جیسے عصا سے غصی، دلو سے ذلئی۔

عجوز سے عَجِيز۔ کتاب سے کَتِيب۔

اور اگر واو متحرک ہو اور لام کلمہ نہ ہو تو یاہ سے بدلنا اور

باقی رہنا دونوں جائز ہے جیسے جدول سے جَدِیل یا جَدِیول،

ادور سے اَدِیر یا اَدِیور۔

اگر تیسرا حرف یاہ ہو تو یاہ تفسیر میں ادغام کر دیا جائے گا جیسے

نُصیر سے نُصِیر۔ جَمِیل سے جَمِیل۔

اور اگر چوتھا حرف واو یا الف ہو تو یاہ سے بدل دیا جائے گا

جیسے عصفور سے عصفور اور سلطان سے سُلْطَانِین۔

اسم تفصیل اگر ناقص ہو تو تفسیر میں تو یاہ تفسیر کا مابعد فعل

تعب کی مانند متنوع رہے گا جیسے ہو اَحِیلِی من العسل۔

اسماء محذوفہ الاعجاز کی تفسیر اس طرح پر ہوگی۔ اُنْیٰ،

اُنْیٰ، ذَمْنٰی اور اگر ایسا اسم ہو کہ اخیر کا حرف حذف کر کے

شروع میں ہمزہ وصل لگایا گیا ہو تو تفسیر بنانے میں ہمزہ وصل

حذف کر دیا جائے گا۔ اور محذوف حرف واپس آجائے گا جیسے ابن

کہ اس کی تفسیر بنی ہوگی۔

اور اگر محذوف کے عوض میں تاء ہو تو صرف محذوف کو

واپس لائیں گے اور عوض کو حذف نہیں کریں گے جیسے زنة عدة

ضارَب سے ماضی مجہول کا سینہ ضروب اور قاتل سے قویل۔
اگر یاء ساکن ضمہ کے بعد واقع ہو تو واو سے بدل جانے کی
جیسے ایقن سے مؤقن۔ ایسر۔ مؤیسو۔

اسی طرح اگر واو ساکن کسروہ کے بعد واقع ہو تو یاء سے بدل
جانے کا جیسے موزان سے میزان۔ موعاد سے ميعاد۔

واو یا یاء متحرک ہوں، اور ما قبل مفتوح ہو تو الف سے بدل
جاتے ہیں، جیسے قال، باع، باب، ناب۔

لیکن اس قاعدے کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں۔ یہ واو یا یاء
فاکلہ کی جگہ میں نہ ہوں وہ زائدہ سے پہلے الف تشبیہ سے پہلے
اور یائے مشدد اور نون تاکید سے پہلے نہ ہوں۔ ناقص کے عین
کلمہ کی جگہ میں نہ ہوں۔ جس کلمہ میں یہ واقع ہوں وہ فعلان و
فعلی کے وزن پر نہ ہو۔ اور ایسے لفظ کے ہم معنی نہ ہو جس میں
تقلیل نہیں ہوتی۔

اگر کسی کلمہ میں واو، یاء جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا
ساکن ہو تو واو کو یاء کے یاء میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے علی،
میت مری کہ اصل میں طوی، میوت۔ مرومی تھے۔

واو یا یاء اگر الف زائدہ کے بعد طرف میں واقع ہوں تو ہمزه
سے بدل جاتے ہیں جیسے کساء سماء بناء طباء۔

جو وہ زائدہ مفرد میں ہو جب جمع بنایا جائے اور الف فعال
کے بعد واقع ہو تو ہمزه سے بدل جاتا ہے جیسے عجوز سے عجائز۔
قلادہ سے قلائد، صحیفہ سے صحائف۔

باب الفعال کے فاء کلمہ میں اگر واو یا یاء واقع ہو تو تاء سے
بدل جاتے ہیں، جیسے اتقی، اتسر۔

الفعال کے فاء کلمہ میں اگر وال یا زال یا زاء واقع ہو تو تاء کو
وال سے بدل لیتے ہیں، جیسے اذآن، اذذکر، اذدان کہ اصل میں
اذدان، اذذکر، اذتان تھے۔ اذذکر میں وال کو زال اور ذال کو
ذال کہ دونوں جازز ہے۔ اذذکر اور اذذکر دونوں کہہ سکتے ہیں۔

الفعال کے فاء کلمہ میں اگر صاد، طاء، ظاء۔ واقع ہوں تو
تاء کو طاء سے بدل دیتے ہیں، جیسے اضطرِب، اضطرِد،
اططلم۔ اططلم جیسے میں ططاء کو طاء اور ططاء کو طاء کرنا دونوں
جازز ہے۔ اظلم اور اظلم دونوں کہہ سکتے ہیں۔



دیا جائے گا بشرطیکہ اس کے بعد ہمزه ہو جیسے فائسی، واذن لی۔
اور اگر ہمزه درمیان میں واقع ہو اور ساکن ہو تو اپنے ما قبل

کی حرکت کے موافق حرف طبع کی صورت میں لکھا جائے گا۔
جیسے ہأس ہونس پنس لیکن ہمزه وصل کے بعد ہو اور بدلا ہوا ہو
تو اثناء کلام میں اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور اسی حرف کی

صورت میں لکھا جائے گا جس سے تبدیلی ہوئی تھی جیسے "ما رجل
الذن" اور "هذا الذی أو تمت علیہ" اور ہمزه متوسط متحرک
اپنی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا خواہ اس
سے پہلے ساکن ہو یا متحرک۔ جیسے لؤم رؤف سال۔

اور اگر مفتوح ہو اور بعد ضمہ وکسروہ کے ہو تو ما قبل کی حرکت
کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے سؤال، زمال،
مؤنت اور اگر ہمزه الف اور یاء کے درمیان واقع ہو تو ہمزه پور یا
دونوں کی صورت میں لکھنا جائز ہے جیسے بقاء یا بقاائی۔

اور اگر ہمزه الف اور ضار میں سے یا کے علاوہ کسی اور کے
درمیان واقع ہو اور کسور یا مضموم ہو تو اپنی حرکت کے موافق
حرف کی صورت میں اور مفتوح ہو تو ہمزه کی صورت میں لکھا
جانے کا جیسے بقاؤہ بقااہ بقااہ۔

ہمزه اگر کلمہ کے آخر میں واقع ہو اور اس کے ما قبل ساکن
ہو تو ہمزه کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے جزء، شئی، فقی۔

اور اگر ما قبل متحرک ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف
کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے ہیؤ، لکأ، ظلیق۔

اگر ہمزه طرف میں واقع ہو اور تاء تانیہ لاحق ہو اور ہمزه
سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو ہمزه کو الف کی صورت میں لکھا
جانے گا۔ مثلاً نشاء۔ اور اگر متحرک ہو تو ما قبل کی حرکت کے
مشابہ حرف سے لکھا جائے گا جیسے فقاء، فؤؤؤ۔

اور اگر ما قبل متصل ہو تو یاء کے بعد یاء کی صورت میں اور
الف اور واو کے بعد ہمزه کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے :
عصیفة برینة فراءة، صلاء، مؤوءة، نؤوءة۔
ابدال کے قواعد :

ایک حرف کی جگہ میں دوسرے حرف کے رکھنے کا نام ابدال
ہے کثیر الوقوع قواعد حسب ذیل ہیں۔

اگر الف ضمہ کے بعد واقع ہو تو واو سے بدل جانے کا جیسے

عربی خطوط کے نمونے

خط ثلث

عَانَكَ خَالِكُ الْإِحْسَانِ وَاللَّيْلَةُ شَهْرٌ بِالْأَنْعَامِ عَلَيْهَا

خط نسخ

زِيَادَةُ الْعَقْلِ عَلَى اللِّسَانِ نِعْمَةٌ وَفَضِيلَةٌ وَزِيَادَةُ اللِّسَانِ عَلَى الْعَقْلِ بَلِيَّةٌ وَرَذِيلَةٌ

خط فارسی

من سابع الايام طابت حياته وقلت احزانه وعم باله

خط بجاں

اِسْتِقْلَالُ الْاِزْمَانِ فِي الْاَكْبَابِ عَلَى الْعُلُوِّ وَالْمَعَارِفِ هَامَةٌ اِنْ اَنْتَ اِنْ تَوَيَّانُ فِي حِرِّ وَالنَّشْرِ يَعْظَمَانِ لِمَا نَبَّضَا

خط رقعہ

لاشئ آمن من الحرية ولا سعادة اكبر من القيام باواجب

خط دیوانی جلی

لِحَدِّ مَرِّ الضَّعِيفِ بِزَيْنِ الْعَوْلِ وَالْاَهْلِ الْاَكْبَرِ مِنَ الْقُوَى اَيْتُونِ فِي الظِّلْمِ

خط دیوانی


مرہ مستبر بریضل ومن استعنا ہدی للوجوب سبیل للفساد

خط کوئی

فصل العاقل علی الجاہل
فصل البک علی السہا

(رازم غلیق لونی) فصل العاقل علی الجاہل کفضل الخیر علی السہا

اشکال ہندسیہ



خط منحنون




اضلاع مثلث




مثلث متساوی الساقین




مثلث متساوی الاضلاع




مثلث قائمہ الزاویہ
۳- وتر مثلث




۳-۳ = قاعدہ مثلث
۲-۱ = عمود مستقیم




خط مستقیم



خطوط متوازیہ




مثلثات




منصف الزاویہ


اوپر ہر دو زاویہ قائمہ
نیچے، عادہ اور منفرجہ



خط منکسر



زاویہ حادہ




زاویہ قائمہ



زاویہ منفرجہ




زاویہ (منجّار)




- ۱-۶-۵-۸-۳ زاویہ متناظرہ
- ۱-۶-۵-۸-۳ زاویہ خارجہ متبادلہ
- ۱-۶-۵-۸-۳ زاویہ داخلہ متبادلہ
- ۱-۶-۵-۸-۳ زاویہ متجانسہ
- ۱-۶-۵-۸-۳ زاویہ خارجہ متبادلہ

اشکال ہستہ




متوازی الاضلاع




شعب المنحن

۱-۲ و ۳-۴ = قاعدے

۵-۱ = بلندی




مربع




۱- مرکزی نقطہ

۲-۳ = قوس ۳-۴ = وتر قوس




زاویہ ۱-۲-۳ = مرکزی زاویہ



۱-۲ = خط مماس

۳-۴ = قاطع دائرہ




دائرہ


۱ = مرکز دائرہ

۲-۳-۴ = محیط دائرہ


۳-۴ = قطر محیط، ۱-۲ = نصف قطر




مربع




(مستطیل)




قطر مستطیل = ۳-۲



مخمس




مستطیس




مستطیس


اشکال ہندسیہ




شکل ایلیپس
۲-۱ = محور اچھر = ۳-۲ = محور اصغر




۳-۱-۲ = مرکزی زاویہ
مستوی ۳-۲ قطعہ دائرہ




دائرہ ایلیپس بتانے کا طریقہ




مخروط




مستوی ۳-۲-۱ = قطاع




شکل ہری



نقشہ زمینا




شکل وخط حلزونی



شکل بیضوی

۱ = قطب شمالی ۲ قطب جنوبی

۳-۲ = خط استوار




۲-۱ = خط افق

۳-۲ = خط عمودی




کرہ



ستون (عمود)

اشکال هندسیہ




مکعب




موشور



ہلال



ہدف (وسطیں)



فون (آلہ معمار)

آنز: (ض) آنزوا، آنزوا، الظنبي: اچھلا، کورتا۔
 صفت آنز و آنز و آنز: ہصاحبہ آنز:
 علم کرتا۔
 الاینزہم والاینزہم: یکساں آواز میں۔
 آنسہ (ض) آنسہ: ملاصحت کرتا، ڈراتا۔
 پہ: تاجدار بنانا، فلاٹا، قید کرتا، بدسلوکی سے
 پیش آنا، حقرو ڈھیل سمجھنا۔
 آنسہ: قید کرتا، بدسلوکی سے پیش آنا، شرم دلانا
 الاینس: قحط، خشک سالی، سخت جگہ، زہکچوا۔
 الاینس: اصل بد، سخت جگہ۔
 اہراقہ اباش: بد خوروت۔
 آنسہ (ن) انبشا و آنسہ: جمع کرنا
 قائبش: القوم: لکھا ہونا۔
 الاینسہ من الناس: مخلوط جماعت۔
 الاینس: کسی کے ضمن اور دروازہ کو کھانے
 پینے کی چیزوں سے بچانے والا۔
 زجل: آباش: کمانے والا مرد۔
 ابض (س) ابض: خوش ہونا۔ صفت ابض
 ابض و ابوض۔
 ابض (ن) ابضنا: البعیر: اونٹ کے اگلے
 پاؤں کو بازو سے باندھنا۔
 قائبض البعیر: اباض نامی رتنی سے باندھنا
 (دیکھئے الاباض، البعیر: اباض نامی رتنی سے
 بندھا ہوا ہونا۔
 الابض: ج اباض۔ والما ابض ج ما ابض:
 زانو کا اندرونی حصہ، بندوست۔
 الاباض: اونٹ کے پاؤں کو بازو سے باندھنے
 کی رتنی۔
 قائبض الشئی: بغل میں لینا۔
 استابض الزجل: اوپر سے ننگ اور اندر
 سے چوڑا رکھا ہونا۔
 الابط: بغل (مذکر مؤنث) ج اباط۔ ابط
 البطیل: دامن کوہ۔
 الاباط: بغل میں لی ہوئی چیز۔
 ابی (س) و ابی (ن) ض) اباقا و ابقا و ابقا:
 العقب: ہماکن۔ صفت ابی ج ابی و ابی:
 تابی: چھٹا، الشئی: انکار کرتا، اوپر اچھلا۔
 الابی: بھگ، بھگ کا چھلا، کسان۔

أبیل (س) ابیلا و أبیل (ن) ابائلہ: اونٹوں کا چھی
 طرح انتظام کرتا۔ صفت أبیل و أبیل ج أبیل۔
 أبیل (ن) ابائلہ: راہب بنتا۔
 أبیل: بنت اونٹوں کا مالک ہونا۔
 الایبل: چھانٹ کر جمع کرتا۔
 قأبیل: الایبل: چھانٹ کر جمع کرتا۔
 الایبل و الایبل: اونٹ (مفرد کے لیے اس کا
 استعمال نہیں ہوتا) ج ابال۔
 الأبلہ: قبیلہ۔ کہا جاتا ہے "جاء فی ابلیہ" وہ
 اپنے قبیلہ میں آیا۔
 الایبل: ج ابال و أبیل و الایبل و الایبل:
 راہب۔
 الایبلہ: جماعت۔ مال کا بہترین انتظام۔ حسن
 سیاست۔ والایبلہ و الایبلہ و الایبلہ۔
 گھاس یا گڑھی کا گھاٹا، کہا جاتا ہے "جئت علی
 ابائلہ" یعنی مصیبت بلائے مصیبت
 الایبل: فرتے۔ ابائل جمع ہے اس کا واحد
 نہیں ظہر ابائل: غول کے غول پرندے۔
 المابلہ: بنت اونٹوں والی زمین۔
 ابلیس: شیطان کا عظیم جنس ج ابالیس و
 ابالسة۔
 ابنہ (ن) ض) ابنا، بطنی: عیب لگانا۔ تمت
 رکنا۔ المذم فی الخرج: کالا ہونا۔
 ابئہ: عیب لگانا، شرم دلانا، مردہ کے اوصاف و
 عاصن شمار کرنا۔ وقابئہ: پیچھے پڑنا۔
 اختطار کرتا۔
 ابان: الشئی: کسی چیز کی ابتداء۔ کسی چیز
 کا وقت۔
 الأبتہ: عیب، کینہ، لکڑی کی گائھج ابن ابائلہ۔
 الزجل: سارے ساتھی۔
 الابن: بیٹا۔
 الابن: خشک کھانا۔
 الابنوس و الابنوس: ایک قسم کی سخت اوپر
 کالی لکڑی۔
 ابہ (ف) ابھا: لہ: تاز جانا۔ لایبہ لہ: اس کی
 طرف التفات نہیں کی جاتی۔
 ابہہ: خبردار کرنا۔ سمجھانا۔
 قابئہ: علیہ: تکبر کرتا، بڑا بننا۔ عن کذا: اپنے

آپ کو بالا دیر تر سمجھنا۔
 الایبہ و الایبہ: ہوائی، غرور، نخوت۔
 ابان (ن) ابان و ابان و ابان: ہوا، الایبہ:
 پرورش کرتا، کہا جاتا ہے۔ "ابوہ واممہ":
 میں اس کے لیے ماں باپ بن گیا۔
 ابی: فلاٹا، کسی سے یہ کہنا کہ میں تمہارے
 اوپر اپنے باپ کو نڈا کرتا ہوں۔
 تابی: فلاٹا، باپ بنانا۔
 الاب: باپ۔ وہ شخص جو کسی چیز کے لیے
 باعث ایجاد یا باعث اصلاح ہو، اس کا احراب
 حالت رفقی میں واو سے اور حالت نصی میں
 الف سے اور حالت جری میں یا سے آتا ہے۔ تم
 کہتے ہو۔ "جاء ابوک، زابت اباک و مزوت
 باینک" اور منادی کی صورت میں یا ابی اور
 یا ابی ج اباء و ابون۔
 ابو ایاس: ہاتھ منہ دھونے کی چیز جیسے
 عطی وغیرہ۔
 ابو ایوب: اونٹ۔ ابو الایزید: گدھ۔ ابو
 الایزید: چیتا۔ ابو الایضیع: گدھ۔ ابو
 الایضیاف: میرزا۔ ابو برص: چھلکا۔ ابو
 البشر: کنیت سیدنا آدم علیہ السلام۔ ابو لقیف:
 سرکہ۔ ابو جابع: دمتر خوان۔ ابو حجاجہ:
 مذی۔ ابو حجاج: بچہ۔ ابو جبران: گھریلا۔ ابو
 جمیل: زکاری۔ ابو حصیب: بھنا ہوا بکری کا
 پتہ۔ ابو حدیج: لقلق۔ ابو حذیر: گرگ۔ ابو
 الحصین: لومڑی۔ ابو خالد: کتا۔ ابو
 خصیب: گوشت۔ ابو ذغلفہ: بیوقوف۔ ابو
 رزین: ایک قسم کا طوا۔ ابو رعلہ: بھیڑیا۔ ابو
 زاجر: کتا۔ ابو زہرہ: گیدڑ۔ ابو سلیمان:
 مرغ۔ ابو السرو: بخور۔ ابو غدر المرأة:
 شوہر۔ ابو عسلہ: بھیڑیا۔ ابو العفاء: گدھا۔ ابو
 عقبہ: سور۔ ابو العلاء: قالورہ۔ ابو عقرہ:
 افلاس، بھوک۔ ابو عوف: زبڈی۔ ابو عوف:
 نمک۔ ابو غزوان: بی۔ ابو قترہ: کنیت ابلیس
 ابو قترہ: گرگ۔ ابو کلالہ: زہریلا۔ ابو لاجق:
 باز۔ ابو لبد: شیر۔ ابو مالک: بھوک، بڑھلا
 گدھ۔ ابو مثنوی: میرزا۔ ابو مدقہ: بھیڑیا۔
 ابو موزہ: شیطان۔ ابو مزمزم: قاضی کا پیارہ۔ ابو

اَثْرًا (س) اَثْرًا يَفْعَلُ كَذَا: کرنے لگا۔ لِيَاثْرًا: پورے اشماک سے مشغول ہونا۔ عَلَيْهِ: بگا
ارادہ کرنا۔ عَلَيْهِمْ: اپنے لیے بہتر چیزوں
کو چھٹا لیتا۔

اَثْرِيْهِ: اثر کرنا۔
اَثْرًا يَفْعَلُ كَذَا: اكرام كرنا۔ چنا۔ فعليت ربا۔ اَثْر
كَلْدًا كَذَا: بچھے لگانا۔

تَأَثَّرَ وَأَثَّرَ: فَلَانَا: نقش قدم کی پیروی کرنا
_____ مِنهُ وَبِهِ: اثر قبول کرنا۔ تم کہتے ہو "معا
تَأَثَّرَ إِلَيْهِ" اَثْرًا: اس نے میرے ساتھ کچھ بھی
احسان نہیں کیا۔

اِسْتَأَثَرَ: بِالشَّيْءِ عَلَى الْغَيْرِ: اپنے لیے
مخصوص کر لیتا۔
_____ اَللَّهِ بِهِ: وفات دینا۔

الْاَثَرُ: نشان۔ حدیث۔ سنت۔ مدت۔ حج آثارو
اَثْرًا: عِلْمُ الْاَثَرِ: پرانی یادگار چیزوں کا علم۔ کہا
جاتا ہے "خَرَجَ لِي (اَثْرِهِ) وَفِي (اَثْرِهِ)" وہ اس
کے بعد نکلا "وَ عَلَيَّ الْاَثَرُ" یعنی فوراً۔
الْاَثَرِي: ماہر آثار و قدیمہ۔

اَلْاَثَرُ وَالْاَثَرُ: زخم کا نشان۔ آثارو اَثْرًا
اَلْاَثَرُ: گوارا جو ہر حج اَثْرًا
اَلْاَثَرُ: حج اَثْرًا وَالْاَثَرُ: بقیہ علم۔ خاندانی و
موروثی شرافت۔

اَلْاَثَرُ: پسندیدگی۔ ترجیح۔ خو فرضی۔
الْاَثَرُ: گوارا جو ہر معزز۔ حج اَثْرًا۔ فَرَضُ
اَثَرًا: گھروں کے بڑے نشان والو گھوڑا۔
الْاَثَرُ: قدماء کے نزدیک بمعنی نواں۔ آسان۔
اور علماء طبیعیات کی اصطلاح میں اَثر کو کہتے ہیں
اور یہ وہ مادہ ہے جس کے جموج سے گرمی بڑھتی
اور آواز دور تک جاتی ہے۔

حَدِيثٌ مَثْرُوزٌ: وہ بات جو قرآن بعد قرن نقل
ہوتی چلی آئے۔ اور اسی سے ہے "اَلشَّيْفُ
المَثْرُوزُ" خاندانی گوارا۔

المَثْرُوزُ: المَثْرُوزُ: عمدہ فعل۔ خاندانی و
موروثی عزت۔ حج مَثْرُوزٌ۔
اَقْدَمَ (ن) اَلْفَا: بچھے جانا طلب کرنا۔
اَقْفَ تَالِيْفًا: القدر۔ پائے پر رکھنا۔
تَأَقَّفَ: الرَّجُلُ المَكْتَانَ: جَم کے رہنا۔۔۔

اِسْتَأْتَنَ: "کا مقصد یہ ہے کہ وہ صاحب عزت تھا"
ذلیل ہو گیا۔

الْاَثْنُ: حمام کا آئینہ۔ چونکہ ہانے کی بھٹی۔ حج
اَثْنًا وَالْاَثْنُ۔

اَثْنًا (ن) اَثْرًا وَاثْنًا: الشَّجَرُ: پھل ظاہر ہونا۔
بنت پھل دار ہونا _____ بِه وَ عَلَيْهِ: چھل
خوری کرنا۔

اَثْرًا وَاثْنًا: رشوت دینا۔
اَثْنًا: الْاَثْرُ: زمین کی پیداوار۔
الْاَثْرُ: خراج۔ رشوت۔ حج اَثْرًا وَاثْنًا۔

اَثْنًا (ض) اَثْنًا وَاثْنًا وَاثْنًا: اَثْرًا۔
المَكْتَانَ: حاضر ہونا۔ الشَّيْءِ: کرنا _____ عَلَيَّ
الشَّيْءِ: پورا کرنا۔ نافر کرنا۔ الرَّجُلُ: مرد کے پاس
سے گزرتا _____ عَلَيْهِ الدَّرَهُ: ہلاک کرنا۔

اَثْنًا نَائِيَةً وَ نَائِيًا: الماء: پانی بننے کے لئے
راست نکال دینا۔
اَثْنًا مَوَانًا: عَلَى الشَّيْءِ: موافقت کرنا۔

اَثْنًا اِثْنًا: فَلَانَا الشَّيْءِ: دینا۔ اِثْنًا الشَّيْءِ:
بھیجتا _____ الرَّجُلُ: بدلہ دینا۔
قَائِيًا: الْاَثْرُ: تیار ہونا آسان ہونا _____ لِلْاَثْرِ
بِزری برتاؤ اور میانہ روی اختیار کرنا

_____ مَعْرُوفًا: درپے ہونا۔
اِسْتَأْتَنَ: الرَّجُلُ: آنے کی درخواست کرنا۔
سنت سمجھنا۔

اَلْاَثْنُ وَالْاَثْنُ: اجنبی۔ مسافر۔ تیل۔
اَثْنًا وَاثْنًا: اچانک آنے والا سیلاب۔
المَثْنُ وَالْمَثْنُ: جت۔ ست۔ کہا جاتا ہے

"اَثْنًا اَثْرًا مَن مَانَا أَوْ مَانَا بِهِ" اس نے معاملہ
کو ٹھیک طریقہ سے انجام دیا۔
اَثْنًا (س) اَثْنًا وَاثْنًا وَاثْنًا: التَّبَاثُ
وَالشَّعْرُ: گنجان ہونا۔ صفت (اَثْنًا وَاثْنًا) حج
اَثْنًا۔

اَثْنًا: الْفَرَاشُ: بچھانا۔
تَأَثَّنَ: مال پانا۔
الْاَثْنُ: سالن خانہ۔ سال۔

اَثْرًا (ض) اَثْرًا وَاثْرًا وَاثْرًا: اَلْحَدِيثُ:
نقل کرنا۔ صفت مفعول (مَثْرُوزٌ) _____ ة: اكرام و
تعظیم کرنا۔

اَلْمُنْفَالُ: گدھ۔ اَبُو مَشْغُولُ: نرجیوٹی۔ اَبُو
مَرْيَمَ: پھلی۔ اَبُو مَعَاوِيَةَ: جیتا۔ اَبُو الْمُنْذِرُ:
مرغ۔ اَبُو نَعِيمٍ: روٹی۔ اَبُو الْوَقَابِ: عقاب
اور بقول بعض اِزَى ہرن۔ اَبُو هَبِيْرَةَ: زر
میٹک۔ اَبُو الْهَيْبَرِ: نرجو۔ اَبُو بَحْثِي: تلک
الموت۔ اَبُو الْبِقَطَانِ: مرغ۔ کہا جاتا ہے "لَا اَب
لِلَّكَ وَلَا اَبَاكَ وَلَا اَبْلَكَ" یہ جملے خبریہ ہیں مگر معنی

میں جملہ انشائیہ دعائیہ کے ہیں۔ مرغ و زم دونوں
موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی گالی کے
موقع پر بھی اور "بِأَيِّ اَثْنٍ" کا مقصد یہ ہے کہ

میرا باپ تیرے اوپر فدا ہو۔
اَثْنًا (ف) اَثْنًا وَاثْنًا وَاثْنًا: الشَّيْءِ:
پسند کرنا۔ انکار کرنا۔ صفت اَبُو جَابُونَ وَاثْنًا
وَاثْنًا۔

اَثْنًا عَلَيْهِ تَأْتِي: باز رہنا۔ خود دار ہونا۔
اَبَاهُ اِثْنًا: الشَّيْءِ: خود دار ہونا۔
الْاَثْنُ: نفرت کرنے والا۔ رذائل سے اپنے

آپ کو بلند رکھنے والا۔
رَجُلٌ اَبَاءٌ: خود دار مرد۔
تَأْتَبُ وَ اِثْنًا: بے آستین والی قمیص پہننا۔
الْاَثْنُ: بے آستین والی قمیص۔ حج اَثْنًا
وَاثْنًا وَاثْنًا وَاثْنًا: وَاثْنًا الشَّيْءِ: جج کا
چمکا۔

اَثْنًا: اصغر سردار۔ اس لفظ کا اطلاق اولاد
سلاطین کے اَتالیق پر ہوتا تھا۔
اِلْتَادًا: روہنے کے وقت گائے کی ٹانگوں میں
باندھنے کی رسی۔ حج اِثْنًا وَاثْنًا۔

اَلْاَثْرُ وَالْاَثْرُ: لیموں۔ لیموں کا درخت۔
اَثْلًا (ض) اَثْلًا وَاثْلًا وَاثْلًا: غمگینی و
سے آہستہ آہستہ چلنا _____ مِنَ الطَّعَامِ: شکم
سیر ہونا۔

اَقَمَ (ن) اَقَمًا: دو چیزوں کو جمع کرنا بِالْمَكْتَانَ
: باقامت کرنا۔ تاخیر کرنا۔
المَثْمُ: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ عموماً
اس کا استعمال اس مجمع کے لیے ہوتا ہے جو اظہار
فم کے لیے ہو۔ حج مَثْمُ۔

الْاَثْنُ: گدھی۔ حج اَثْنًا وَاثْنًا وَاثْنًا و
اِسْتَأْتَنَ: گدھی خریدنا۔ اور "مَكْتَانَ جَمَاعًا

مَحْكَمٌ دَلَالٌ وَ بَرَابِيْنٌ سَعِيْزٌ، مَتْنُوْعٌ وَ مَفْرُوْدٌ مَوْضُوْعَاتٍ پَرِ مَشْتَمَلٌ مَفْتٌ اَنْ لَانَّ مَكْتَبَهُ

القَوْمُ الْأَمْزُوعِيُّ: اکٹھا ہونا۔ الْأَفْيُوقَةُ: دیک رکھنے کا پایہ۔ جماعت۔ ج۔ الْأَفْيُوقَةُ: الْإِنْفَاقِيُّ: پہاڑ کے ایک حصہ کو جس کے سامنے دو چتر رکھ کر اس پر بانڈی رکھتے ہیں گما جاتا ہے "رَمَاهُ: نَلَّهٖ بِأَلْفَيْهِ الْإِنْفَاقِيُّ" اللہ اس کو بدترین مصیبت میں مبتلا کرے۔ أَقْل (ن) اَثْوَلًا وَأَثَل (ک) اَثَلَةٌ: جڑ پکڑنا۔ صفت اَثِيلٌ وَمُؤَثَلٌ۔ أَثَلُ: الْمَالُ: زکوٰۃ دینا۔ اصل ٹھہرنا۔ الْمَمْرَةُ تقظیم کرنا۔ الْمَمْرُودُ: جمہور بزرگی کی بنیاد رکھنا۔ تَأَثَلٌ: جڑ پکڑنا۔ اکٹھا ہونا۔ الْمَالُ: کما کر بڑھانا۔ الْمَبْرُودُ: کم ہونا۔ الْأَثَلُ: جماعت کا درخت واحد اَثَلَةٌ ج اَثَلَاتٌ وَأَثَالٌ وَأَثَلٌ: کما جاتا ہے "نَحْتُ أَثَلْتَهُ" اس نے اسے عیب لگایا اور اس کا مرتبہ گھٹایا۔ الْأَثَلَةُ وَالْأَثَلَةُ: گھریلو سامان۔ اصل سامان۔ الْأَثَلَةُ وَالْأَثَالُ وَالْأَثَالُ: موروثی مال یا شرافت یا بزرگی۔ أَيْم (س) اَيْمًا وَأَيْمًا وَأَيْمًا وَمَنْعًا: گناہ کرنا۔ صفت اَيْمٌ ج اَيْمَاءٌ وَأَيْمٌ ج اَيْمَةٌ۔ أَيْم (ن) ض) اَيْمًا: اللہ فلاں کا گناہ دینا اور سزا دینا۔ أَيْمَةٌ: گناہ کی طرف منسوب کرنا۔ أَيْمَةٌ: جملے سے گناہ کرنا۔ تَأَيْمٌ: گناہ سے بچنا۔ الْإَيْمُ: ج اَيْمًا وَالْمَأَيْمَةُ وَالْمَائِمَةُ: ناجائز فصل۔ گناہ۔ جرم۔ الْأَيْمُ: بھیڑنا۔ جو۔ شراب (آخری معنی کا ہو کر نے انکار کیا ہے)۔ أَثَانٌ (ن) اَثْوَانًا وَأَثْوَانًا وَأَثْوَانًا: اَثْوَانًا یہ: چغل خوری کرنا۔ تَأَثْوَانًا وَتَأَثْوَانًا: بادشاہ کے پاس مقدمہ لے جانا۔ الْمَأَيْمَةُ وَالْمَأَيْمَةُ: چغل خوری۔ أَجَّ (ن) اَجْنَعًا: بھڑکانا۔ صفت۔ اَجْنَجٌ وَ أَجْوَجٌ: اَجْوَجًا: اَجْوَجًا: کھاری ہونا۔ أَجْنَجُ: النَّارُ: بھڑکانا۔ اَجْنَجٌ عَلَى الْعُدُوِّ:	دُخْنٌ: جملہ کرنا۔ أَجَّ: الْمَاءُ: کھاری ہونا۔ تَأَجَّجٌ وَتَأَجَّجٌ وَتَأَجَّجٌ: بھڑکانا۔ اِنْفَاقُ الْعَمَلِ: حیر گرم ہونا۔ الْأَجَّاجُ: بخت کھاری پائی۔ الْأَجَّجَةُ: گرمی کی شدت ج اِحاج _____ وَالْأَجْنَجُ: شور۔ چلنے کی آہٹ۔ أَجَدَهُ وَأَجَدَهُ وَأَجَدَهُ: قوی کرنا۔ مضبوط کرنا _____ نَائِلَةٌ: مُضَبَّوَةٌ: مَظْمُونَةٌ۔ الْإَجَادُ: بھڑکانا۔ الْمُؤَجَّدُ: مضبوط کیا ہوا۔ بِنَاءٌ مُؤَجَّدٌ: مضبوط عمارت۔ قُوْبٌ مُؤَجَّدَةٌ: الْمَسِيحُ: مضبوط بنا ہوا کپڑا۔ أَجْرٌ (ض) ن) اَجْرًا وَاجْرًا: بدلہ دینا۔ مزدوری دینا۔ أَجْرٌ (ن) ض) اَجْرًا وَاجْرًا: اَجْرًا۔ الْعَظْمُ: جڑ جانا۔ الْعَظْمُ: جوڑنا۔ أَجْرٌ: الْعَظْمُ: پکانا۔ أَجْرٌ: الْمَرْجُلُ: مزدور بنانا۔ الْإِنْجَارُ: الدَّاءُ: فَلَانًا وَمِنْ فَلَانٍ: کرایہ پر دینا۔ صفت کَامِيْنَةٌ: مُؤَجَّجٌ: بَكْسَرُ: الْحَيْمِ: ہے مُؤَاجِرٌ: نہیں۔ الْإِنْجَارُ: صدقہ کرنا۔ مزدوری طلب کرنا۔ عَلَيْهِ بِكَدًا: اَجْرَتٌ: مزدور ہونا۔ الْإِنْجَارُ: الدَّارُ: کرایہ پر لینا۔ الْمَرْجُلُ: مزدور رکھنا۔ الْأَجْرُ: ثَوَابٌ: ج اَجْرًا وَاجْرًا۔ الْأَجْرَةُ: اِمْتِنَانٌ: ج اَجْرًا۔ الْأَجْرَةُ: ج اَجْرًا وَاجْرًا: اَجْرًا: مزدوری۔ الْأَجْرِيُّ: مزدور۔ نوکر۔ ج اَجْرًا۔ الْإِنْجَارُ: اَلْوَيْحَارُ: زرد آلو۔ أَجَلٌ (ن) اَجْلًا: عَلَيْهِ شَرٌّ: کسی کے خلاف شر اٹھانا۔ أَجَلٌ (س) اَجْلًا: پیچھے رہنا۔ دیر کرنا۔ گردن میں درد والا ہونا۔ صفت اَجَلٌ وَاجْلٌ۔ أَجَلٌ: الشَّقِيُّ: بدت مقرر کرنا۔ مصلحت دینا۔ الْمَرْجُلُ: درد گردن کا علاج کرنا۔ تَأَجَّلٌ: پیچھے رہنا۔ بدت مہین کرنا۔	إِسْتَأْجَلَ: بدت مہین کرنا۔ أَجَلَ: یہاں۔ الْأَجَلُ: بدت۔ وقت۔ موت۔ ج اَجَلٌ۔ الْأَجَلُ: سبب۔ کما جاتا ہے "مَنْ أَجْلَكَ فَعَلْتُ هَذَا" تمہاری وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ الْأَجَلُ: گردن کا درد۔ الْإَجْلُ: نیل گاؤں کا گلد۔ ج اَجَلٌ۔ الْأَجَلُ وَالْأَجَلَةُ: دیر سے ہونے والا۔ آخرت۔ أَجَمٌ (ض) أَجْمًا: اَجْمًا وَتَأَجَّمَ: الْقَهَارُ: سخت گرم ہونا۔ تَأَجَّمَ عَلَيْهِ: ٹھیکناک ہونا۔ تَأَجَّمَ الْأَسَدُ: جھاڑی میں داخل ہونا۔ الْأَجْمَةُ: گنجانا۔ درخت۔ جھاڑی۔ شیر کے رہنے کی جگہ۔ ج اَجْمًا وَتَأَجَّمَ: اَجْمًا وَتَأَجَّمَ: آجام۔ الْأَجْمُ: قلعہ۔ ج اَجْمًا۔ أَجْنٌ (ن) ض) أَجْنًا وَتَأَجَّنًا: اَجْنٌ (س) أَجْنًا: الْمَاءُ: رنگ اور مزہ بدلانا۔ صفت۔ آجن وَأَجْنٌ۔ أَجْنٌ (ن) أَجْنًا: الْقُوْبُ: کپڑے کو دھونے کے لیے کوٹنا۔ الْأَجْنَانَةُ: کپڑے دھونے کا ٹاپ۔ ج أَجَانِيْنٌ: تھالہ۔ الْمَسْتَجْنَةُ وَالْمَسْتَجْنُ: دعوئی کی موگری۔ ج مَا جِنٌ۔ أَجَّ (ن) أَجًّا: اَجًّا: اَجًّا: اَجًّا: اَجًّا: الْأَخَاحُ: پیاس۔ وَالْأَجْنَجُ وَالْأَجْنَجَةُ: عُتْرَةٌ۔ أَحَدٌ وَوَحْدٌ: الْمُتَعَدِّدُ: ایک کرنا۔ الْعَدَدُ: ایک بڑھانا۔ إِتَّخَذَ: بہ۔ کٹھا ہونا۔ متیقن ہونا۔ وَإِتَّخَذَ: اکیلا ہونا۔ إِسْتَأْخَذَ: اکیلا ہونا۔ الْأَخْدُ: ایک اکیلا۔ یکا۔ مَوْثِدٌ: اِحْدَى: کما جاتا ہے "فَلَانٌ أَخَذَ الْأَخْدَيْنِ" فلاں بے مثل ہے۔ اِحْدَى: الْأَخْدُ: بڑا عجیب معاملہ۔ أَخَادٌ: ایک ایک۔ کما جاتا ہے "جَاءُوا أَحَادًا وَ أَخَادًا" یعنی وہ لوگ ایک ایک کر کے آئے
--	--	--

کے لیے اخوی و اخینی۔
 الْأَخْتَبُ: برسن۔ ج۔ اخوات۔
 الْأَخِيَّةُ وَالْأَخِيَّةُ: رستی جس کے دونوں سرے زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور اوپر کو حلقہ سا نکلا ہوا ہوتا ہے جس میں جانوروں کو باندھتے ہیں۔ ج۔ او اخینی و اخینا و او اخ۔ کہا جاتا ہے: سَدَّ اللَّهُ بَيْنَكُمَا أَوْأَخِي الْأَخِيَاءُ" اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان بھائی بندی کے علاقہ کو مضبوط کرے۔
 أَخِيُون: تاگ۔ یعنی۔
 آذُن (ان) آذُنًا: ة الْوَلِيُّ: مصیبت کا اچانک آنا۔ الْأُمُ: بھاری اور دشوار ہونا۔
 الرَّجُلُ لِي الْأَرْضِي: سفر کرنا۔
 تَأَدَّدَ: الْأُمُ: سخت دھوناک ہونا۔ صفت
 آوِدُ۔
 الْأَوْدِيَّةُ: شور۔
 الْأَذَى وَالْإِذَاءُ: سخت دوشوار کام۔ مصیبت ج۔
 إِذَا دُوِذْتُ۔
 أَدَبٌ (ک) أَدَبًا: زیرک و دانش مند ہونا۔
 صاحب ادب ہونا۔ صفت ادیب ج۔ أَدَبًا۔
 أَدَبٌ (ض) أَدَبًا وَ أَدَبٌ إِذْنَا: دعوت کا کھانا تیار کرنا۔ أَدَبًا وَ أَدَبًا: دعوت میں بلانا۔ کہا جاتا ہے "أَدَبُهُمْ عَلَيَّ الْأُمُ" اس نے ان سب لوگوں کو کام پر جمع کر دیا۔
 أَدَبٌ: مہذب بنانا۔ شائستہ بنانا۔ ادب سکھانا۔
 جرم پر سزا دینا۔
 تَأَدَّبَ: مہذب و شائستہ بنانا۔ ادب سکھانا۔ عَنَنْ فُلَانٌ: کسی کے اخلاق پر اٹھنا۔ بہ: اقمہ کرنا۔
 اسْتَقَادَبَ: ادب سکھانا۔
 الْأَدَبُ: اخلاقِ ملکہ جو ناشائستہ باتوں سے روکتا ہو۔ زیرکی۔ خوش طبعی۔ ج۔ آداب نیز آداب کا اطلاق ہر قسم کے علوم و معارف پر ہوتا ہے یا ان کے صرف دلچسپ حصے پر۔ کسی چیز یا کسی شخص کے مخصوص قوائم جیسے آدابِ مجلس۔ آدابِ درس وغیرہ، علمِ ادب۔ وہ علم جس کے ذریعہ بول چال اور تحریر کی غلطیوں سے محفوظ رہے۔
 الْأَذْيَةُ وَالْمَاذِيَّةُ وَالْمَاذِيَّةُ: کھانا جو دعوت کے لیے تیار کیا جائے۔ ج۔ مآذیب۔

أَخْرَجَ أَخِيَّةً: غنہ: بیچے کرنا۔
 تَأَخَّرَ وَ اسْتَأَخَّرَ: بیچے رہنا۔
 الْأَخْرُ: نیرج۔ أَخْرُونَ مؤنث أَخْرِي و أَخْرَاتُ ج۔ أَخْرُو أَخْرِيَاتُ: بطور کنایہ بولتے ہیں "أَبْعَدَ اللَّهُ الْأَخْرُ" یعنی اللہ اس شخص کو دور کرے جو ہم میں سے نہیں ہے۔
 الْأَخْرُ: پھیلا حصہ۔ کہا جاتا ہے "سَقَّ السُّوْبُ أَخْرًا وَمِنْ أَخْرٍ" اس نے کپڑے کو بیچے سے بھاڑ دیا۔
 الْأَخْرَةُ: ویری۔ کہا جاتا ہے "جاء أَخْرَةُ وَ بِأَخْرَةٍ" وہ آخر میں آیا۔
 الْأَخْرُ: پھیلا۔ ج۔ أَخْرُونَ مؤنث أَخْرِي ج۔ أَخْرِيَاتُ: کہا جاتا ہے "لَا أَعْلَهُ آخِرُ الدَّهْرِ وَ آخِرُ اللَّيَالِي" یعنی میں اس کو کبھی نہیں کروں گا۔
 أَخْرِيَاتُ الْخَيْبَةِ: بارغ کا آخری حصہ۔
 الْأَخْرَةُ وَالْأَخْرِي: دار البقا اور نسبت کے لیے أَخْرِي وُئِي۔
 الْمُؤَخَّرُ وَالْمُؤَخَّرَةُ: ج۔ مآخرو وَالْأَخْرَةُ مِنْ الْعَيْنِ: کپڑی کی طرف آنکھ کا گوشہ۔
 مُؤَخَّرَةُ الرَّجُلِ وَ مُؤَخَّرَتُهُ وَ آخِرَتُهُ: کجاوہ کا پھیلا حصہ۔
 الْمُسْتَحْزَأُ مِنَ التَّخْلِ: کجور کا درخت جس کا پھل جاڑے کے آخر تک باقی رہے۔ ج۔ مآخیز۔
 مُؤَخَّرُ: الشَّيْءُ: چیز کا پھیلا حصہ۔
 أَخْرَانُ: أَخْوَةٌ: ة: بھائی یا دوست بنانا۔
 أَخِي: لِلدَّيَاةِ: اخیتہ بنانا (کچھ لفظ اخیتہ)
 أَخِي إِخَاءَ وَ مُؤَاخَاةً وَ إِخَارَةً: ة: بھائی یا دوست بنانا۔
 تَأَخَّى: ة: بھائی بنانا۔ یا بھائی کہنے کے پکارنا۔
 تَوَخَّى: قسم کرنا۔
 تَأَخَّى: باہم بھائی بھائی ہونا۔
 الْأَخُ وَالْأَخُ وَالْأَخُ وَالْأَخُ: بھائی۔ ساتھی۔
 و دوست۔ ستیزی۔
 أَخْوَانُ ج۔ إِخْوَةٌ وَ أَخْوَةٌ وَ إِخْوَانٌ وَ أَخْوَانٌ وَ أَخْوَانٌ وَ إِخْوَانٌ: اور تبتل بعض الإخْوَانِ اس آخ کی تبت جو دوستی کے لحاظ سے بھائی کے معنی میں ہے اور الإخْوَةُ اس آخ کی جو نسبی بھائی کے معنی میں ہے۔ اور نسبت

الْأَخْدُ: التوارکان۔ ایک شنبہ۔ ج۔ آحاد۔
 أُخِدَ: مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا کے قریب ایک ہاڑ کا نام۔
 الْأَخْدِيَّةُ: بیکالی۔
 أَحْرَسَ (س) أَحْرَسًا: پوشیدہ دشمنی اور کینہ رکھنا۔
 أَحْرَسَ مُوَاحِنَةَ الرَّجُلِ: کسی سے دشمنی رکھنا۔
 الْأَخْنَةُ: کینہ ج۔ احسن۔
 الْأَخِينَةُ: دودھ یا گھی ملا ہوا آٹا۔
 الْأَخْبُوْطُ وَالْأَخْطُوْطُ: جگر کی قسم کا ایک کپڑا۔
 أَخَذَ (ن) أَخَذًا وَ تَأَخَذًا: لینا۔ وہ بہ: پکڑنا۔
 بِذَنْبِهِ: سزا دینا۔ مواخذہ کرنا۔ عَلَيَّ يَدِهِ: کرنے سے روک دینا۔ مِنْ شَارِبِهِ: چھانٹنا۔ کرنا۔ غَنَهُ: نقل کرنا۔ سیکھنا۔ عَلَيَّ نَفْسِهِ: گھرائی کرنا۔ فِيهِ الْخَمْرُ: اثر کرنا۔ يَفْعَلُ: کرنے لگنا۔ فِي كَذَا: شروع کرنا۔ إِخْذُهُ وَ يَأْخُذُهُ: طریقہ اختیار کرنا۔ کسی کے اخلاق کو اپنانا۔
 أَخَذَهُ: جاو کرنا۔
 أَخَذَهُ مُوَاحِذَةً: ملامت کرنا۔ عتاب کرنا۔
 عَلَيَّ ذَنْبِهِ وَ بِذَنْبِهِ: سزا دینا۔
 إِتَّخَذَ: کر دینا۔ بنا دینا۔ عاجز ہونا۔
 إِتَّخَذَهُ وَ تَخَذَهُ (س) تَخَذًا: صدیق بنا دینا۔
 اسْتَأْخَذَ: درو کی وجہ سے سر جھکانا۔
 الْأَخْذُ: آشوب۔ چشم۔
 الْأَخْذَةُ: افسوس، منتز، درندوں کے شکار کے لیے گڑھا۔
 الْأَخْذَةُ: جسے یا اعضاء کی پوست۔
 الْإِخَاذَةُ: پانی جمع ہونے کی تالاب جیسی جگہ ج۔ إِخَاذَاتُ وَ إِخَاذٌ: إِخَاذِي ج۔ أَخْذُو أَخْذُ۔
 الْأَخْيَظُ: قیدی۔ ج۔ أَخْذِي۔
 الْأَخْيَظَةُ: لڑائی میں دشمن سے چھینا ہوا مال۔
 غصب کیا ہوا مال۔
 الْمَأْخُذُ: راستہ لینے کا طریقہ یا وقت یا وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز جاتی ہے ج۔ مآخذ۔ الْمَأْخُذُ: پھندے۔ جہاں۔

أَذْرَ (س) أَذْرَأُ: الرَّجُلُ: آماس خضيه والاهوتا- صفت أذْرُ-

الأَذْرَةُ: الأَذْرَةُ: آماس خضيه- الأَذْفُ: آله تاسل- كان-

أَذَلَّ (ض) أَذَلَّ: العَجُزُ: كمرئز أرتنا- اللَّسِنُ: بلونا- النَّابُ: بند کرنا- (اقرب) الأَخْلُ: گردن کاورو- گاڑھا کھارو دھ-

أَذَمَّ (ض) أَذَمَّ: الخَيْرُ: سالن لگانا- صفت مفعولی مَاذَوْمٌ- أَدِيمٌ-

وَأَذَمَّ أَذَمًا: بَيْنَ مَتَحَاصِمَيْنِ: صلح کرنا- اُفْتُتْ وَانْفَاقٌ پیداکرنا-

أَذَمَّ (ن) أَذَمًا: أَهْلُهُ: اپنے لوگوں کے لیے نمونہ بنا-

أَوْدَمَ (س) أَدَمًا وَأَدَمَ (ك) أَدَمَةً: گندم گوں ہوتا-

إِنْدَمَّ: سالن سے روٹی کھانا- الأَذَامُ: ہر موافق و مناسب چیز- سالن- ج

أَدَامَ وَأَدَمَ: الأَذَمُ: ہرہ چیز جس کو سالن بنایا جاسکے-

الأَدَمَةُ والأَذَمُ: چڑے کا ظاہری یا اندرونی حصہ کما جاتا ہے "فَلَا تُؤْذِمُ أَذَمًا قَوْمَهُ وَأَدَمًا يَتِيمِي"

أَيُّوهُ أَدَمَةً قَوْمِهِ" فلا اپنی قوم کا سردار ہے-

أَدَمُ: سیدنا ابوبشر آدم علی نبیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم گرامی- افراد جنس پر بھی اس کا

الطابق کیا جاتا ہے- ج أَوَادِمُ- نسبت کے لیے

أَدِيمِيٌّ- الأَدَمُ: گندم گوں- مَوْنَتُ أَدَمًا: ج أَدَمَ-

الأَدَامُ: چڑے کی تجارت کرنے والا-

الأَدِيمُ: پکایا ہوا چمڑا- أَدِيمٌ النَّهَارُ: دن کی روشنی- کما جاتا ہے: "ظَلَّ أَدِيمٌ النَّهَارِ صَائِمًا": وہ پورے دن روزہ سے رہا- أَدِيمٌ الضَّحَى: چاشت کی ابتداء أَدِيمٌ اللَّيْلُ:

رات کی تاریکی- والأَدِيمُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ الأَرْضِ آسْمَانٌ يَأْمِنُ كَاظْهَرِي حَصَّة- ج أَدَمُ وَأَدَمًا وَأَدَمًا:

الأَدَمَةُ: قربت- وسیلہ- گندم گولی-

أَذَا (ن) أَذْوًا: القَمْرُ: پلکا- اللَّيْسُ: گاڑھا ہونا- أَذْوًا اللَّيْسُ: بلونا- الرَّجُلُ:

دھوکا فریب دینا-

تَأَدَّى وَتَأَدَّى: آلم بنا- تیاری کرنا- زمانہ کے حوادث کے دفعیہ کے لیے اسباب میا کرنا-

الأَدَاةُ: آلم- ج أَدَوَاتُ-

الإِدَاوَةُ: چہرہ کا چھوٹا برتن- ج أَدَاوِيٌّ-

أَدَى (ض) أَذْيًا وَأَدَى قَادِيَةً: الشَّيْءُ: پہنچانا- ادا کرنا-

أَدَى إِيْدَاءً: تیاری کرنا- قوی ہونا- عَلَيَّ: مدد کرنا-

تَأَدَّى: لَهُ مِنْ حَقِّهِ: ادا کرنا- إِلَيْهِ الخَيْرُ: پہنچانا-

إِسْتَأَدَى: فَلَانًا المَالَ: لینا- عَلَيَّ: مدد چاہنا- الأَدَاءُ: ادا کیلگی- پہنچانا-

إِذْ: زمانہ ماضی کے لیے ظرف ہے اور اس کے بعد ہمیشہ جملہ واقع ہوتا ہے- اور کبھی جملہ کو حذف

کردیتے ہیں اور اس کے عوض توہین لاتے ہیں- جیسے "مَنِي جَاعَتِكُمْ المَوْتُ فَجِيئْتِيذِ تَعْلَمُونَ" یہ اصل میں یوں ہے فَجِيئْتِيذِ جِيئْتِيذِ تَعْلَمُونَ: اور کبھی مفاہجہ کے لیے آتا ہے جیسے

"بَيْتَنَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَاءَ زَيْدٌ" اور کبھی لام

تعلیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے "ضَرَبْتُ ابْنِي إِذْ سَاءَ" میں نے اپنے بیٹے کو مارا

اس وجہ سے کہ اس نے گستاخی کی تھی-

إِذَا: زمانہ مستقبل کے لیے ظرف ہے اور معنی شرط کو متضمن ہوتا ہے جیسے "إِذَا اجْتَهَدْتَ نَجَحْتَ" جب تم کوشش کرو گے تو کامیاب

ہو گے- اور حرف مفاہجہ بھی ہے جیسے "خَرَجْتُ فَإِذَا أَسَدٌ بِالنَّابِ" میں لگا تو اچانک دروازہ پر

شیر تھا-

أَذَارٌ وَأَذَارٌ: ماہ مارچ- (روی میں سے کانام) الأَذْرِيُّونَ: سورج کبھی-

إِذَمًا: حرف شرط ہے بمعنی ان- اور دونوں کو جزم رہتا ہے جیسے إِذَمَّا تَقَمُّمُ افْتَمُّ-

إِذْنٌ وَإِذًا: حرف جواب و جزا ہے- مثلاً تم سے کوئی کے کہ "أَزُوؤُكَ عَدُوًّا" تو اس کے جواب میں

تم کو گے "إِذْنٌ أَكْرَمُكَ"

أَذِنَ (س) أَذِنًا: إِلَيْهِ وَهُوَ: کان لگانا- سنا- کما جاتا ہے "حَدَّثْتُهُ فَأَذِنَ لِي أَحْسَنَ الأَذْنِ" میں نے

بات چیت کی تو اس نے اچھی طرح کان لگا کر بات سنی-

أَذِنًا وَأَذِنًا: لَهُ فِي الشَّيْءِ: اجازت دینا- مباح کرنا- إِذْنًا وَأَذْنًا وَأَذَانَةً

بِالشَّيْءِ: جاننا-

أَذْنَةً (ن) أَذْنًا: کان پر مارنا- گوشالی کرنا- أذْنٌ: کسی کے کان میں درد ہونا-

أَذَنٌ إِيْدَانًا: فَلَانًا الأَمْرُ وَبِالأَمْرِ: جملانا- آگاہ کرنا- الرَّجُلُ: کان پر مارنا- العشبُ: خشک ہونے لگنا-

وَأَذَنٌ تَأَذِيَةً: بِالصَّلَاةِ: اذان دینا- أَذَنُ الوَلَدِ: کان گرم کرنا-

تَأَذَنٌ: قَسَمَ كَمَا: لَأَمْرٍ: آگاہ کرنا- جملانا- بِالشَّيْءِ: ذُرًا: الأَمِيَّتِيُّ فِي النَّاسِ: امیر کا

اعلان کرنا اور دھکانا-

إِسْتَأَذَنُ: اجازت طلب کرنا- عَلَيَّ: اندر آنے کی اجازت مانگنا-

الأَذْنُ: اجازت طلب، کما جاتا ہے "فَعَلَّةٌ بِأَذْنِي" اس نے اس کو میری دانستگی میں کیا-

الأَذْنُ والأَذْنُ: کان (مؤنث) ج أَذَانٌ: تغیر

أَذِيَّةٌ: أَذَانُ القَارِوِ: الجَدِي وَ- الأَرْزَبُ وَ- الفَيْلُ: مختلف حیوانات کے

کان أذْنُ الكَوْزِ: ٹوٹی- کما جاتا ہے "فَلَانٌ أَذْنٌ مِنَ الأَذَانِ" فلاں ہر ایک کی بات سن کر مان لیتا

ہے اور یہ لفظ واحد ہی تشبیہ جمع مذکر مؤنث سب میں استعمال ہوتا ہے جیسے "هِيَ أَذْنٌ هُمَا أَذْنٌ هُمْ أَذْنٌ" اور کما جاتا ہے "جَاءَ نَاشِرُ الأَذْنِيَّةِ" وہ

لاج کر رہا ہوا آیا و جَاءَ لِأَبْسَا الأَذْنِيَّةِ" وہ غافل ہو کر آیا-

الأَذْنَةُ: خواہش-

الأَذَانُ: خبردار کرنا-

الأَذْنُ والأَذَانِي: بڑے کان والا-

الأَذِينُ وَالمؤذِنُ: اذان دینے والا-

الأَذِينُ: سردار- لیڈر- لقیل- المُنْدَنَةُ: اذان دینے کی جگہ- منارہ- ج مَارَنُ- أَدَى (س) أَذَى وَأَذَاةٌ: تکلیف پانا- صفت

جاتا ہے۔ "فَلَا تَنَارُوا زُيْلِي وَطَلِبَةَ" فلاں ہر مہر کے اپنے وطن ہی کی طرف آتا ہے۔ اللیل: ٹھنڈی ہونا۔ صفت اریز و آرز و آروز۔ اور کہتے ہیں "بِقِتْلَةِ أَرزَةٍ تَارُزُ مَنْ فِيهَا لَيْسِدَةٌ بَرْدَهَا" ہم نے ایسی ٹھنڈی رات گزاری جس میں ہر شخص سردی کی شدت کی وجہ سے سڑا جا رہا تھا۔ "وَأَرزَتْ أَصَابِعُهُ مِنَ الْبَرْدِ" اس کی انگلیاں سردی کی وجہ سے سڑ گئیں "وَسَحَرَتْ أَرزَةً" وہ درخت جو جڑ پکڑے۔

أَرزُ القوم: قوم کا سردار۔

الْأَرز: سوز کا درخت۔

الْأَرزُ وَالْأَرزُ وَالْأَرزُ وَالْأَرزُ: حادل۔ دھان۔

الْأَرزُ: خیل

أَرز (ض) آرزو اور آرس۔ کاشکار ہونا۔

الْأَرنس: کاشکار۔ ج ارنسون۔

الْأَرنس: کاشکار، بڑا کاشکار ج ازارسۃ

وارانس و اراوس۔

الْأَرنس: پاکیزہ نسب۔

أَرش (ن) أَرشۃ: بھڑکانا۔ بیت دینا۔

أَرشۃ: بیتنہم: فساد ڈالنا۔ ایک کو دوسرے کے خلاف آسانا۔ الحزب والثار: بھڑکانا۔

الْأَرش: بیت۔ رش۔ ج اروز۔

أَرض (ن) أَرضًا وَأَرض (ک) أَرَضَة۔

المكان: سرسبز اور خوش منظر ہونا۔ صفت ارض۔

أَرضت (س) أَرضًا وَأَرضت: الخشبۃ:

دیکھ خورده ہونا۔

أَرض: الکلام وغیرہ۔ آراستہ کرنا۔ تیار کرنا۔

تأرض: بالمکان: اقامت کرنا۔ زمین میں

جم کے رہنا۔ لکندا: بورپے ہونا۔

استأرض: السحاب: زمین سے قریب فضا میں پھیل جانا۔

الأرض: زمین۔ ج ارضون و اروض

واراض و اراض: زکام۔ جوڑی بخار۔ کہا جاتا ہے "اتانا ابنی أرض" ہمارے پاس غیر معروف

انسان سفر آیا "أرض القمل" جوتہ کی تلی۔

الأرضۃ: ایک قسم کا کیرا جو کڑی کھاتا ہے

حاجت ج مآرب۔

الأرذۃ: گرگت کے سر کے بال۔

أرذت: دیکھئے مادہ ورث۔

أرذت: بھڑکانا۔ بیتنہم: فساد کی آگ بھڑکانا۔

تأرذت: الناز: بھڑکانا۔

الأرذۃ والأرذات: ایندھن۔

الأرذات والأرذات والأرذات: آگ۔

أرج (س) أَرَجُوا وَأَرَجُوا وَأَرَجُوا: خوشبودار

مسلک۔ صفت أَرَج. أَرَج النَّاسُ: رونے میں آواز

بلند کرنا۔

أَرَج (ض) أَرَجًا: أَلْحَقَ بِالْبَاطِلِ: حق میں

باطل کی آمیزش کرنا۔

أَرَج القوم وبتنہم: آسانا ایک کو دوسرے

کے خلاف بھڑکانا۔ صفت أَرَجُ النَّارُ:

روشن کرنا۔

الأَرَج: بڑا بھوتنا۔

المورج: شیر۔

الأرجوان: ایک پھولدار درخت کانام۔ سرخ

رنگ۔ سرخ رنگ کے کپڑے۔

أَرَج قَارِيعًا وَأَرَج مَوَارِجَةً: الكتاب:

تاریخ نکالنا۔

التاريخ: وقت کا بیان کرنا۔ تاریخ السنی:

کسی چیز کے واقع ہونے کا وقت۔ ج تواریخ۔

علم التاريخ: ایسا علم جس میں حوادث

وواقعات مع تاریخ کے بیان کئے جائیں۔

الأرض: خیل۔ ج اروز۔

الأرض: نسل گائے۔ واحد أَرَضَة۔ ج أَرَاخ

وإراخ۔

الأرضیۃ: پہاڑی بکری کا بچہ۔

الأرذت: ایک بڑا پیمانہ جس میں چوبیس (۳۳)

صاع غلہ آتا ہے۔

أرذ (ن) أَرذًا: الدابة: جانور کو ہانکنا۔ دھکارنا۔ دور

کرنا الممرأة: عورت سے جماع کرنا۔

الثار: آگ سلگانا۔ السلح: پائیمانہ کرنا۔

أرذ (ف) أَرذًا: العاجن: جوئے میں غلبہ کے

وقت ارے رے رے کرنا۔

الأرذۃ: آگ۔

أرذ (ن) أرذًا: أرذًا وأرذًا: سٹٹا سٹٹا کرنا۔ کہا

أَذَى إِذَاءَ الرَّجُلِ: تکلیف پہنچانا۔

تَأَذَى: تکلیف اٹھانا۔

الأذى والأذیۃ والأذۃ: تکلیف، رنجش

الأذی: تکلیف زدہ۔

الأذی: سخت تکلیف پہنچانے والا۔ سخت

تکلیف پانے والا۔

الأذی: موج دریا۔ ج اواذی۔

أرب (س) أَرَبًا: ماہر ہونا۔ صفت أرب

أربیت۔ مؤنث أربیۃ۔ أرب بالشئی: مشتاق

ہونا۔ ماہر و دان ہونا۔ إِلَیْهِ: محتاج ہونا۔

الرَّجُلُ: کسی کے اعضا کا اگر جانا علیہ: قوی

ہونا۔

أرب (ض) أَرَبًا: العُقْد: مضبوط گرہ لگانا

الرَّجُلُ: عضو پرانا۔

أرب (ک) أَرَابَةٌ وَأَرَابًا: عمل مند و دان ہونا

صفت أرب و أرب۔

أرب: الشئی: مضبوط کرنا۔ الششاء:

نکلنے نکلنے کاٹنا۔

أرَبۃ مَوَارِجَة: قریب دینا، دھو کر دینا۔ أرب

إِبْرَابًا عَلَیْهِمْ: کامیاب ہونا۔

تأرب: بتکلف زیرک بننا۔ الأمز:

دشوار ہونا۔

استأرب: مخالط دینا۔ دشمنی چھپاتے ہوئے

مدارات کرنا۔ قرض لینا۔

الأرب: حاجت، ضرورت، انتہاء۔ ج

أرب۔

الأرب: عضو۔ کہا جاتا ہے "قَطَعْتُ الدَّيْبِجَةَ

إِزْبًا إِزْبًا" یعنی میں نے ذبیحہ کے عضو عضو کو کاٹا۔

ضرورت۔ ج أرب۔

والأربۃ: چالاک۔ جلیہ۔

الأرب: انکشت شہادت اور بیچ کی انگلی کے

درمیان کا فاصلہ۔

الأرب: چالاک۔ پیدائش کے وقت کے گائے

بکری کے بچے۔

الأربۃ: گرہ۔ کتے کے گلے کا پٹنہ ج ارب۔

الأربیۃ: ران کی جڑ۔

الأربیان: جینکا پھلی۔

المآرب والمآربۃ شمیش راء مآربۃ:

الْأَزَى: شہد کھانا جو دیگ کی تلی میں جل کر چپک جائے۔

الْأَزَيْتَةُ: جانور کا تھان۔

الْأَزَّةُ: کوہان کی چرلی۔

أَزْتُ (ن ض) أَرَأُو أَرَأَا وَأَرِيْنَا الْقِدْرُ: جوش مارنا۔ سنناٹا۔ الْقِدْرُ وَبِهَا: جوش

دینے کے لیے آگ جلانا۔ أَرَعَلَى كَذَا: بھڑکانا۔

برائے لگنے کرنا۔ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔

تَأَزَّرَ: الْمُصْخَلِسُ: اہل مجلس کا مضطرب ہونا۔

اسم الازة ہے۔

الْأَزْرُوعُ: پھوسے وغیرہ کا درو۔

الْأَزْيُورُ: بادلِ مَرَج۔ دیگ کی سنناٹ۔

سردی۔

أَزَبَ (ض ن) أَرَبْنَا: الضَّاءُ: جاری ہونا۔

الْأَزْبُ: لہیم پست۔ قد۔ جلاک۔

الْأَرَبُ وَالْأَرَبُ: لہا۔

الْبَحْرُ: پرنالہ۔ بدرو۔ پانی بننے کی جگہ۔

تأیدان۔ ج مآزب۔

الْأَزِيَّةُ: شدت۔ نقطہ۔

أَزَحَ (ض ن) أَرُوجًا: فہی مشیتہ: تیز چلنا۔

أَزَحَ (س) أَرَجًا: الغضبُ: گھاس کا طویل ہونا۔

أَزَحَ (ن) أَرَجًا: عَنَى: مدد طلب کرنے کے وقت کا بلی کرنا۔

أَرَجَ: البَيْتُ: لہا۔

الْأَرَجُ: لہا۔

الْأَرَجُ: تازو انداز سے ملنے والا۔

فَرَسٌ أَرُوجٌ: تیز رفتار گھوڑا۔

أَرَحَ (ض ن) أَرُوجًا: تَأَرَحَ: دیر لگانا اور پیچھے

رہ جانا۔ صفت أَرُوجٌ: أَرَحَتْ فَتَدْمُهُ: بھسلا۔

الْأَرْدُ: رُخْتُ وَالْأَرْدَانُ: رُخْتُ: ایک درخت کا نام ہے۔

الْأَرَادُ: ایک قسم کی کھجور۔

أَرَرَا (ض ن) أَرَرًا: بِالشَّيْءِ: احاطہ کرنا۔ التَّيْبَاتُ: لگنے جانا۔

وَأَرَرًا: فَلَانَا: قوی کرنا۔ أَرَرَةُ: ڈھانپنا۔

أَرَرَةُ: مُوَارِزَةُ: مدد دینا۔ غم خواری کرنا۔

تَأَرَّرَ: وَالتَّرَرُ: ازارہ پھینکانا۔ بند باندھنا۔

وشرح کچھ باقی نہ چھوڑنا۔ صفت مفعولی أَرَمَاءُ وَ

مَارُومَةُ: الشَّيْءُ: جڑ سے ختم کرنا۔

الرَّجُلُ: نزم مزاج۔ انا۔ الْحَبْلُ: مضبوط ہونا۔

الأزْمُ: دائرہ میں۔ کہا جاتا ہے۔ يَخْرُقُ عَلَيْهِ

الأزْمُ: وہ اس کے اوپر غصے کی وجہ سے دانت پیتا

ہے۔ پتھر۔ اگھوں کے کنارے۔ ٹکڑیاں۔

الأزْمُ وَالْأَرْمُ: میدان میں رہنمائی کے لیے

نصب کئے ہوئے پتھر کہا جاتا ہے "مناہا ازم او

ارم" اس میں کوئی نہیں۔ اس کا استعمال: عیش نفی

میں ہوتا ہے۔ ج آرام و ازم۔

الأزومة والأزومة والأزومة: درخت کی جڑ۔

ج ازم اور حسب کے لیے استعارہ استعمال کیا

جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "نَفْسُ ذَاتِ الْكُرُومَةِ مِنْ

اطيب أزومة" یعنی کریم النفس و کریم الاصل۔

الأزومة: نشانِ راہ۔ ج ازم۔

أَرِنَ (س) أَرْنَا وَأَرَيْنَا: البَحْرُ: نشاط میں

آنا۔ صفت أَرِنٌ وَأَرُونٌ۔

أَرَنَهُ (ن) أَرَنًا: دانت سے کاٹنا۔

أَرَنَهُ مُوَارِزَةً وَإِرَانًا: مفاخرت کرنا۔

الْأَرَانُ: تابوت۔ ج ازن۔ الْأَرَانُ: کھوار۔

الْأَرَانُ وَالْحُفْرَانُ: وحشی جانوروں کے رہنے

کی جگہ۔ ج مآزین۔

مُشَاةُ أَرَانٍ: جنگلی تیل۔

الْأَزِيَّةُ: تریخیر۔ اور بقول بعض ایک دانہ کا نام

ہے جس کو دودھ میں پیڑ بنانے کے لیے ڈالتے

ہیں۔

الأزین والأزانی والأزنی: ایک قسم کا دانہ جو

دودھ کو پیڑ بنا دیتا ہے۔

الأزُونُ: زہرا در بقول بعض ہاتھی کا بھیجا۔

الأزويَّةُ والأرويَّةُ: پھاڑی بکرا (نذکر و مؤنث

دونوں کے لیے استعمال ہے)۔ ج آزوئی و آزوایو

و آزوئی۔

أَرَى (ض ن) أَرَيْتَا: الضَّلُّ: شہد بنانا۔

أَرَى (س) أَرَيْتَا: صَدْرَةُ عَلِيٍّ: غضبناک ہونا۔

أَرَى: الدَّابَّةُ: جانور کے لیے تھان بنانا۔

التَّارُ: سلکان۔ بھڑکانا۔

تَأَرَى: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ عَنَتُهُ: پیچھے رہ جانا۔

دیگ۔ ج ارض۔

المأزوض: دیگ کہاں ہوئی کھڑی۔

الأرضي شوكي: زمین پر پھیلنے والا ایک خار

دار پودا۔

الأزطي: ایک درخت جس کا پھل عناب کی

مانند سرخ ہوتا ہے۔

الأزغش والأزغشون: آرگن۔ ایک قسم کا

باجہ آؤف تارینفا: حد بندی کرنا۔ الْحَبْلُ: بگرہ

لگانا۔

أَرَفَ: عَلَى الْأَرْضِ: محدود کیا جانا۔

الأزفة: دو زمینوں کے درمیان حد قائل

علامت گره ج ارف۔

الأزفي: زمین کی پیمائش کرنے والا۔ خالص

دودھ۔ کہا جاتا ہے "هو موافقي" یعنی اس کے

مکان کی حد میرے مکان کی حد کے متصل ہے۔

أَرَقِي (س) أَرَقَا وَأَرَقِي: رات میں نیند نہ آنا۔

صفت أَرَقِي وَأَرَقِي وَأَرَقِي: آخر کا کلمہ اس

فحص کے لیے ہے جس کی عادت ہی بے خوابی کی

ہو۔

أَرَفَهُ تَارِيْفًا وَأَرَفَهُ إِتْرَافًا: بیدار رکھنا۔

الْبِرْقَانُ وَالْأَرْقَانُ وَالْبِرْقَانُ وَالْأَرْقَانُ

والأرقان والأراق: برقان۔ بیماری جس میں

آدی کارنگ سیاہ یا زرد ہو جاتا ہے اور یہ عارضہ

کھیت کو بھی ہو جاتا ہے۔

أَرَكَ (ن ض) أَرُوكًا: الْجَمَلُ: پیلو کے پتے

کہانا۔

أَرِكَ (س) أَرَكَا وَأَرِكَ: الْجَمَلُ: پیلو کے پتے

کہانے سے پیٹ میں درد ہونا۔ أَرَكٌ وَأَرِكٌ

الْبُحْرُ: زخم کا چھاپنا جانا۔

الأراك: درخت پیلو۔ واحد أَرَاكٌ ج أَرَاكٌ و

ار ایک۔

الْأَرِيْكَةُ: آراستہ و مزین تخت۔ ج آرایک

و آریک۔ کہا جاتا ہے "هُوَ كَرِيمٌ الْمَأْزُوكُ" وہ

کریم الاصل ہے۔ آریکگہ: زخم کا چھاپنا۔

الأزلة: وہ چھڑا جس کو منتہ کے وقت کاٹتے

ہیں۔

أَرَمَ (ض ن) أَرَمًا: مَا عَلَى الصَّائِلَةِ: سب کچھ

چٹ کر جانا۔ الْأَرْضُ: زمین میں جڑ

الْأَيْسُرُ: قیدی۔ جِ أَسْرَى وَأَسْرَاءُ
وَأَسَارَى وَأَسَارَى۔
الْأَسْرُ شَيْءٌ۔
الْأَسْرُوبُ وَالْأَسْرُوبُ وَالْأَسْرُوبُ سِيْرٌ۔
الْإِسْطَبْلُ: اصطبل۔ جِ اسْطَبْلَاتُ۔
الْأَسْطَبْلَاتُ: ایک قسم کا آلہ جس سے نبوی
ستاروں کی بلندی کا اندازہ کرتے ہیں۔
الْأَسْطَقِيسُ وَالْإِسْطَقِيسُ: اصل وغیرلہ۔
جِ اسْطَقِيسَاتُ: قداماء فلاسفہ کے نزدیک
عناصر اربعہ کو کہتے ہیں۔
الْأَسْطُوْرَةُ: قصہ۔ کہانی۔ جِ اسْطَابِيْرٌ۔
الْأَسْطُوْلُ: جنگی جہازوں کا بیڑہ۔ جِ اسْطَابِيْلٌ۔
الْأَسْطُوْانَةُ: ستون۔ کھمبا۔ جانور کی ٹانگ۔ جِ
اسْطَابِيْنٌ۔ کہا جاتا ہے "هُمَّ اسْطَابِيْنُ الزَّمَانِ"
وہ لوگ زمانے کے کھمبے اور مخصوص افراد ہیں۔
أَيْسَفٌ (س) أَسْفًا: غمگین۔ غمگین ہونا۔
افسوس کرنا۔ صفت اَيْسَفٌ۔
أَسْفًا: اِسْفًا: غمگینا کرنا۔ غمگین کرنا۔
تَأْسَفٌ: افسوس کرنا۔ تَأْسَفْتُ يَذُو: پھٹ
جانا۔ کہتے ہیں "يَا أَسْفَى وَيَا أَسْفَى عَلَى كَذَا"
مجھے اس پر کس قدر افسوس ہے۔
الْأَسُوْفُ: جلدی غمگین ہونے والا۔ نرم
دل۔
الْأَيْسِفُ: غمگین۔ وہ شخص جو موٹانہ ہو تا ہو۔
جِ أَسْفَاءُ مَوْتٌ أَيْسِفَةٌ: الْاَيْسِفُ: قیدی۔
حدیث میں ہے "لَا تَقْتُلُوْا عَيْسِفًا وَلَا اَيْسِفًا"
مزدور اور قیدی کو قتل مت کرو۔
أَرْضٌ اَيْسِفَةٌ وَأَسَافَةٌ: وہ زمین جس میں
اچھی طرح پیداوار نہ ہو۔
الْأَسَافَةُ: افسوس۔ زمین کی نرمی۔
الْاَيْسِفَةُ: باندی۔
الْإِسْفَنَجُ: ایتھ۔ واحد اسْفَنَجَةٌ۔
الْإِسْفَنْدُ: سفید رانی۔ اسْبَنْدٌ۔
الْإِسْفَنْقُوْرُ وَالسْفَنْقُوْرُ: ایک قسم کا دریائی
جانور ہے جو گرم ممالک میں ہوتا ہے اور حرکت
سے بڑا اور موٹا ہوتا ہے اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔
الْإِسْكَالَةُ: بحر روم کی ہر بندرگاہ۔ جِ
أَسَاكِلُ۔

أَسْلٌ (ک) أَسْلَةٌ وَأَيْسَلٌ (س) أَسْلًا: نرم
ہموار، لمبا ولامٹ ہونا۔ صفت اَيْسِلٌ مَوْتٌ
أَيْسِلَةٌ۔
أَسْلٌ: الرُّوحُ: تیز کرنا۔ انہی کی مانند کرنا۔
تَأَسَّلٌ: ع: اخلاق و عادات میں مشابہ ہونا۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ عَلَيَّ أَسَالٌ مِنْ أَبِيهِ" وہ اپنے باپ
کے مشابہ ہے۔ آسَالٌ کا مفرد نہیں آتا۔
الْأَسْلُ: پتلی اور لمبی شاخوں والی ایک قسم کی
نباتات، واحد أَسْلَةٌ: تیزی اور ہر تیز اور پتلی تلوار
اور چھری۔
الْأَسْلَةُ: زبان کی نوک۔ ذراع کا باریک حصہ۔
الْإِسْمُ: دیکھئے مادہ س ہو۔
أَسَافَةٌ: شیر کا پلم جس۔
أَسْنٌ (ن ض) أَسْنَاوُ أَسْوْنَاوُ أَيْسِنٌ (س) أَسْنَا
وَقَاسِنٌ: المَاءُ: متغیر ہونا۔ بدبودار ہونا۔ صفت
أَيْسِنٌ: تَأَسَّنَ وَذُوهُ: بدل جانا۔ تَأَسَّنَ أَنَاهُ: باپ
کے اخلاق اختیار کرنا۔
أَيْسِنٌ (س) أَسْنَا: الرَّجُلُ: سڑے ہوئے پانی
والے کونٹوں میں داخل ہونے سے بیوش ہونا یا
سر چکرانا۔ صفت اَيْسِنٌ۔
الْأَسْنُ: چھلی کا پتھر۔ جو آسان۔ الامان۔ آثار
قدیمہ۔ آسان القیاب: کپڑے کے بوسیدہ اور
پھٹے ہوئے حصے۔
الْأَسْنُ: رتی کی لڑی۔ جِ أَسْوْنَاوُ۔
أَسَانٌ (س) أَسْنَاوُ أَسَا: الْجُزْجُ: مطلق کرنا۔
الرُّجْلُ: تلی رینا۔ صفت مفعول اَيْسِيٌّ۔
وَمَا سُوٌّ: بِنْتُهُمْ: صلح کرنا۔ ع: يَفْلَانُ:
کسی کو کسی کے لیے نمونہ قرار دینا۔
أَسَى تَأْسِيَةً: الرَّجُلُ: علاج کرنا۔ تلی رینا۔ بد
کرنا۔
أَسَى مَوَاسَاةً: الرَّجُلُ لِي مَالِهِ: مالی ہمدردی
کرنا۔ اَيْسِيَّةٌ: بِنْفَسِي: اپنے برابر سمجھنا۔
تَأْسَى: صبر کرنا۔ تلی پانا۔ وائسلی: بہ:
اقتداء کرنا۔ پیروی کرنا۔
تَأْسَى: الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو تلی رینا۔
الْأَسْوَةُ وَالْأَسْوَةُ: اقتداء۔ نمونہ۔ وہ چیز جس
سے تلی حاصل ہو۔ جِ أَسَى وَأَسَى۔
الْإِسَاءَةُ: دوا۔ جِ اَيْسِيَّةٌ۔

فَلَانًا تَمَكَّنَا - اِنْتَصَّ إِلَيْهِ بِنَاهِ لِيَدَا - معطر ہوتا۔ الْأَصَى : جڑ - کہا جاتا ہے "فَلَانٌ تَكْرِيمٌ الْأَصَى" فلاں شریف الاصل ہے۔ الْأَصَاصُ : پناہ لینے کی جگہ - جلن سوزش۔ الْأَصَاةُ : تالاب - جو بڑے ج اَصَى و اَصَاتَات۔ الْأَصَاةُ : خروڑہ کی فالیز - بید کا جھل۔ أَصَمٌ (س) اَصَمًا - عَلَيْهِ غَضَبًا کہ وہ بہ : تکلیف پہنچانے لگتا۔ الْأَصَمُ - کینہ - حد - غصہ - ج اَصَمَات۔ اَطَّ (ض) اَطَيْطًا : آواز نکالنا - چڑھانا الْإِبِلُ بِلْمَانَا - کہا جاتا ہے "هَمْ إِبِلُ اَطَيْطٍ و صَهَيْلٍ" وہ اونٹ اور گھوڑے والے ہیں۔ اَطْرَه (ض) اَطْرًا و اَطْرَةً : موڑنا۔ إِنَّاظَرُ : مڑنا۔ تَاظَرُ : دوہرانا۔ الْأَظَرُ : کمان کا خم۔ الْأَظِيوُ : گناہ - کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ بِأَظِيوِ غَيْرِهِ" اُس نے اس کو دوسرے کے جرم میں پکڑ لیا۔ الْأَظَارُ : چو کھٹا گھیرا - ہر احاطہ کرنے والی چیز ج اَظُرُ۔ الْأَظَلُ و الْإِظَلُ : ج اَطَالُ : الْإِنْتَظَلُ ج أَيَاظِلُ : پہلو - کوکھ۔ أَظَمَ : الْإِظَامُ - قلعوں کو بلند کرنا۔ تَأَظَمَ : السَّنْبُلُ : سیلاب کا بلند ہونا النَّازُ : آگ سے لپٹ اٹھنا عَلَيْهِ : بڑا بڑا غضبناک ہونا۔ الْأَظَمُ : قلعہ - ج اَطَامُ۔ الْأَظُومُ - سمندری کچھوا - ایک قسم کی موٹی کھال کی مچھلی - زرافہ - گائے۔ الْأَظِيْمَةُ : آگ جلانے کی جگہ - چولہا - ج اَطَالِمُ۔ أَفَّ (ن ض) أَفًا و تَأَفَّفَ و أَفَفَ - غم اور بے قراری کی وجہ سے اَبَّ اَبَّ اَبَّ اَبَّ۔ الْأَفَفُ : بے قراری - وقت۔ الْأَفَّ : ناخن کا تراشہ - کان کا میل۔ أَفَّ : اسم فعل - بمعنی الضجر و الكره (میں	گناہ - ج اَصَارُ - کان کا سوراخ۔ الْأَصَارُ : ج اَصْرًا و الْإِنْتَصَرُ : ج اِبَاَصِرُ۔ الْإِصَارَةُ : خیمہ کی رسیوں کی کھوڑا۔ الْأَصِيرَةُ : تعلق - رشتہ داری - ج اَوَاصِرُ۔ إِصْطَبِلَ : اصل۔ الْإِصْطَفَالِيْنُ : گاجر - واحد اَصْطَفَالِيْتَةٌ۔ الْإِصْطَكْمَةُ : راگھ میں پکی ہوئی روٹی۔ الْأَصْطَوَانَةُ : ستون - کھمبا - جانور کی ٹانگ - ج أَصَابِيْنُ و اَصَابِيْنَةٌ۔ الاصف - ایک قسم کا درخت۔ أَصْلُ (ک) اَصَالَةٌ - جڑ والا ہونا - جڑ پکڑنا۔ شریف الاصل ہونا _____ زَائِيَةٌ : عمدہ ہونا۔ صفت اَصِيْلٌ۔ أَصِيْلُ (س) اَصْلًا - الْمَاءُ : بچھڑکی وجہ سے متغیر ہونا _____ اللَّحْمُ : بودار ہونا۔ أَصِيْلٌ فَلَانٌ يَفْعَلُ كَذَا : بمعنی ظَلُوقٌ یعنی فلاں ایسا کرنے لگا۔ أَصْلُهُ : جڑ والا بنانا - اصل بیان کرنا - شرافت بیان کرنا۔ أَصْلٌ اِيضًا : شام کے وقت میں داخل ہونا۔ شام کے وقت آنا - اسی سے ہے "أَتَيْنَاهُمُو صَالِيْنٌ" ہم شام کے وقت آئے۔ تَأَصَّلَ : جڑ والا ہونا۔ إِنْتَاَصَلَ - الشَّيْ : جڑ سے اکھیرنا۔ إِنْتَاَصَلَتِ الشَّجَرَةُ : جڑ پکڑنا۔ الْأَصْلُ : جڑ - وہ چیز جو فرع کے مقابل ہو - والد۔ صدر و نوح - "مَا فَعَلْتُمْ أَصْلًا" میں نے اس کام کو یقیناً نہیں کیا - ج اَصُوْلٌ و الْاَصُوْلُ : وہ تو ائین جن پر کسی علم یا فن کی بنیاد ہوتی ہے۔ الْأَصِيْلُ : عمرو مغرب کے درمیان کا وقت ج أَصَالٌ و اَصَائِلُ و أَصْلٌ و أَصْلَانٌ۔ و الْاَصِيْلُ - بغیر وکیل کے خود لین دین کرنے والا۔ الْأَصِيْلَةُ : جڑ والی - "جَاؤُوا بِأَصِيْلَتِيْهِمْ" وہ سب کے سب آئے۔ الْأَصْلَةُ : ایک قسم کا چھوٹا یا بڑا سانپ - ج أَصَلُ۔ أَصَّ (ن ض) أَصًّا - هُوَ إِلَيْهِ : مجبور کرنا - معطر کرنا۔	الْأَشِيرُ - ٹڈی کے پاؤں کا خار - ٹڈی کے دم کے سرے پر کی گہرہ - ج اَوَاشِيرُ۔ الْأَشِيْرَةُ - ٹڈی کے منہ کا وہ حصہ جس سے وہ کسی چیز کو کاٹتی ہے - ٹڈی کے پاؤں کا خار - ج تَاشِيرُ۔ الْمَشَشَاوُ : آرہ - ج مَاشِيْرٌ و هُوَ اَشِيْرٌ۔ الْإَشْفَى : ستال - ج اَشَافِيْ اَشَافِيْ۔ الْإَشْقِيْلُ : ایک قسم کی نباتات۔ الْأَشْنَةُ : ایک قسم کی نباتات پر پھلتی ہے۔ الْإَشْنَانُ و الْإَشْنَانُ : ایک قسم کی نباتات جس کو ہاتھ دھونے میں استعمال کرتے تھے۔ أَصَّ - الشَّيْ : توڑنا - نرم کرنا۔ أَصَّصَ - الشَّيْ : مضبوط کرنا۔ فَأَصَّصُوا و اِنْتَصَّصُوا : جمع ہونا اور بھیڑ کرنا۔ الْأَصِيْنُ - شکست برتن - گملہ - پیشاب کرنے کا برتن - مضبوط عمارت - کچی۔ الْأَصِيْنَةُ : قریب قریب کے گھر۔ أَصَدَّ و أَصَدَّ - النَّبَابُ : بند کرنا - و أَصَدَّهُ : چھوٹی قمیص پہنانا۔ الْأَصْدَةُ : چھوٹی قمیص - کرتی - ج اَصْدُ و اَصَادُ۔ الْأَصْدَةُ : قوم کے جمع ہونے کی جگہ - ج إِصْدُ۔ الْأَصِيْدُ : صحن خانہ۔ الْأَصِيْدَةُ : باڑہ - چھوٹی قمیص - کرتی۔ الْأَصَادُ و الْاَصِيْدَةُ : طیق - الْاَصَادُ : چوکھٹ - پہاڑوں کے درمیان گڑھا - جس میں پانی جمع ہو۔ الْمَوْصِدُ : چھوٹی قمیص - کرتی۔ أَصْرًا (ض) أَصْرًا : الشَّيْ : توڑنا - الْخَيْْمَةُ : خیمہ کے لئے تیج بنانا _____ فَلَانًا عَلَيْهِ : متوجہ کرنا - مہربان بنانا۔ أَصْرَهُ هُوَ اَصْرَةٌ : بڑوسی ہونا۔ تَأَصَّرُوا : باہم بڑوسی ہونا۔ إِنْتَصَرَّ - الْقَرْوَمُ : کثیر التعداد ہونا _____ التَّبِيْتُ : بگی اور گنجان ہونا۔ الْأَصْرُو و الْاَصْرُو : اَصْرٌ : عمدہ - بیان - بوجھ۔
---	---	--

أَلْفُ الْكِتَابِ : مسائل کو جمع کرنا _____
 الشَّيْءُ : ایک کو دوسرے سے ملانا تہتہم : محبت
 ڈالنا۔ محبت واقع کرنا _____ أَلْفٌ : پورے ہزار
 کرنا۔
 تَأَلَّفَ : اکٹھا ہونا۔ تَأَلَّفَ الشَّيْءُ : اجزاء کا
 مرتب طور سے اکٹھا ہونا۔
 تَأَلَّفَهُ : اوپر کی دل سے محبت کرنا۔
 اِنْتَلَفُوا وَ تَأَلَّفُوا : اکٹھا ہونا۔
 اِسْتَأَلَفَ : دوست و ساتھی ڈھونڈنا۔
 اَلْأَلْفُ وَالْأَلْفَةُ : دوستی۔
 اَلْأَلْفُ : ہزار۔ ج اَلْوَفُ وَالْأَفُ :
 اَلْأَلْفُ : حروف تہجی کا پہلا حرف۔ ہر چیز میں کا
 ایک مرد جس کی پیروی نہ ہو۔ بازو کے اندرونی
 حصہ کی ایک رگ کا نام۔
 اَوَّالِفٌ : الظلیر : گھروں میں رہنے والے
 پرندے۔
 اَلْأَلْفِيَّةُ : الف کی طرف نسبت۔ اور اصطلاحاً
 اس قصیدہ کو کہتے ہیں جس میں کسی فن کے قواعد
 بیان کئے گئے ہوں۔ جس کے اشعار کی تعداد ہزار
 ہو اور ان میں مشہور تر ”الفیہ ابن مالک“ ہے۔
 اَلْاِیْلَافُ : عمد۔ پروانہ رابہا راری۔
 التالیف : مصدر۔ کتاب۔
 اَلْاَلْوُفُ : بہت محبت کرنے والا۔ ج اَلْفُ
 المائف : مرغوب و مانوس چیز۔ ج مائف۔
 المؤلّف : مصنف۔ ہزار کا مالک۔
 اَلْفٌ (ض) اَلْفًا وَ تَأَلَّفٌ وَ اِنْتَلَفٌ : تبرق : بجلی
 چمکتا۔ کوئٹا۔
 اَلْفٌ : التّوَجُّلُ : جھوٹ ہونا۔
 اَلْفٌ اَلْفًا : دیوانہ ہونا۔ صفت مطلق وَ
 مَمْلُوقٌ۔
 اَلْاَلْفُ : بھیرا۔ ج اَلْفٌ : بد خلق۔ اَلْاَلْفَةُ : بندریا۔
 اَلْاَلْوُفُ : دیوانگی۔ جنون۔
 اَلْاَلْفُاقُ : بغیر بارش کے بجلی۔
 اَلْاَلْفُاقُ : جھوٹا۔
 المائلوق : دیوانہ۔
 المطلق : بے وقوف۔
 اَلْكُ وَالْاَلْكَا وَالْوَكَا وَالْمَاكَا :
 وَالْكُ الْاَكَا : پیغام پہنچانا۔ اَلْفَرَسُ اللَّحَامُ :

گھوڑے کا گوشت کو چبانا۔
 اِسْتَأَلَفَ : اَلْوَكَا : کسی کا پیغام لے جانا۔
 الْمَلَكُ وَالْمَلَائِكَةُ : فرشتے۔ ج مَلَائِكُ
 وَمَلَائِكَةٌ۔
 اَلْاَلْوُكُ وَالْاَلْوَكَا وَالْمَاكُ وَالْمَاكَا :
 پیغام۔ ج اَلْوَكَا وَمَاكَا۔
 الْمَاوُكُ : دیوانہ۔
 اَلْمُ (س) اَلْعَاوُكُ : کسی ہونا۔ صفت اَلْمُ۔
 اَلْمُ تَالِيْمًا وَ اَلْمُ اِيْلَامًا : دکھنا۔
 تَأَلَّمَ : دکھی ہونا۔
 اَلْاَلْمُ : دکھ۔ ج اَلَامُ۔
 اَلْاَلْمُ : وردناک۔
 اَلْاِلْمَاسُ : ہیرا۔
 اَلْهُ (ف) اَلْوُهَةُ وَالْاَهَةُ وَالْوَهِيَّةُ : پرستش
 کرنا۔ بندگی کرنا۔
 اَلْهُ (س) اَلْهَا : متحیر ہونا۔ کہا جاتا ہے ”اَلْهَيْتُ
 عَلَيَّ“ میں نے اس پرست زیادہ جزع فرغ کیا۔
 اَلْهَةُ : غلام بنانا۔ خدا کا مرتبہ دینا۔ پرستش کرنا۔
 تَأَلَّمَ : معبود بن جانا۔ باخدا ہونا۔
 اِسْتَأَلَّمَ : معبود سے مشابہ ہونا۔
 اَلْاَلْهَةُ : معبود۔ ج اَلْهَةُ۔
 اَللَّهُ : ذات واجب الوجود کا نام۔ اَللَّهُمَّ : اے
 اللہ۔
 اَلْاَلْوُهَةُ وَالْاَلْاَهَةُ وَالْاَلْهِيَّةُ وَالْاَلْوَهِيَّةُ
 وَالْاَلْهَانِيَّةُ : معبودت۔
 اَلْاَلْاَهَةُ : بڑا سانپ۔ نیا چاند۔
 اَلْاَلْهِيَّةُ وَالْاَلْاَهَةُ : آفتاب۔
 عَلَّمَ اَلْاَلْهِيَّاتُ : وہ علم جس میں اللہ تعالیٰ کی
 ذات و صفات سے بحث کی جائے۔
 اَلْاَلْ (ن) اَلْوَا وَ اَلْوَاوُ اَلْيَا وَ اَلْيَا وَ اِنْتَلَى
 اِيْلَآءُ : ہی الامر : کوتاہی کرنا۔ سستی دکھانا۔ کہا
 جاتا ہے ”لَمْ يَبَالِ جَهْدًا“ اس نے اپنی کوشش میں
 ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔
 اَلْيَا اِيْلَآءُ وَ تَأَلَّى وَ اِنْتَلَى : قسم کھانا۔
 اَلْاَلْوُ : عطیہ۔ بکری کی بیگنی۔
 اَلْاَلْوُ : اَلْاَلْوَةُ وَالْاَلْوَةُ وَالْاَلْيَةُ : اگر کی کلوی
 ج اَلْاَلْوِيہ۔
 اَلْاَلْوَةُ وَالْاَلْوَةُ وَالْاَلْيَةُ : قسم اَلْيَةُ کی جمع اَلْاَلْيَا۔

اَلْاَلْفُ : بہت قسمیں کھانے والا۔
 اَلْجِلْفَاةُ : وہ کپڑے کا ٹکڑا جس کو نوچ کرنے
 والی عورت اپنے ہاتھ میں لے کر ہلاتی جاتی ہے۔
 ج مآل۔
 اَلْيَا (س) اَلْيَا : اَلْكَيْشُ : میڈھے کا بڑی چکی
 والا ہونا۔ صفت اَلْيَانُ وَ اَلْيَا : مؤنث اَلْيَانُ وَ
 اَلْيَانَةُ : ج اَلْيَا۔
 اَلْاَلْيَةُ : ذبیح کی چکی۔ مثنی اَلْيَانُ بغیر تاء کے۔
 ج اَلْاَلْيَا وَ اَلْيَاتُ۔
 اَلْاَلْيَا وَ اَلْاَلْيَا : نعمت ج اَلْآءُ۔
 اَلْاَلْآءُ وَ اَلْاَلْيَا : ایک قسم کھور کھور جو ہمیشہ سبز
 رہتا ہے اور اس کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ واحد
 اَلْاَلْآءَةُ۔
 اَلْاَلْآءُ : فوج کا دستہ ج اَلْاَلْيَاتُ : ترکی کلمہ
 ہے۔ اس کے لیے عربی ”فیلق“ ہے۔
 اَلْيَا : حرف جر ہے۔ مثنی ذیل میں مستعمل
 ہے استواء زمانہ کے لیے جیسے ”دَرَسَ اِلَى
 الْمَسَاءِ“ اس نے شام تک پڑھا۔ استواء مکان
 کے لیے جیسے ”سَارَ اِلَى النَّبِيْتِ“ وہ گھر تک چلا۔
 بمعنی عند جیسے ”كَلَامُهُ اَشْفَى اِلَى وَنِ
 الْوَحْيِي“ اس کی گفتگو میرے نزدیک شراب
 سے زیادہ مرغوب ہے۔ بمعنی لام جیسے ”اَلْاَمْرُ
 اِيْلَيْكَ“ معاملہ تیرے اختیار میں ہے۔ بمعنی مع
 جیسے ”صُمُّ هَذَا اِلَى ذَاكَ“ اس کو اس کے ساتھ
 ملاو۔
 اَلْيَكَ : اسم فعل بمعنی دور رہو۔ بٹو جیسے
 ”اَلْيَكَ عَيْنِي“ یعنی تو مجھ سے دور ہو جا۔ اور بمعنی
 خدا جیسے ”اَلْيَكَ الْكِتَابُ“ یعنی کتاب کو لے لو۔
 اَلْيَا : اولیٰ کی جگہ استعمال ہوتا ہے جیسے
 اَلْعَرَبُ اَلْاَلْيَا : قدماء عرب۔ اولیٰ اسم اشارہ
 جمع قریب کے لیے ہے۔
 اَمَّ : حرف عطف امزہ استتمام کے بعد تسمیہ
 اور برابری کے مفہوم کے لیے آتا ہے۔ جیسے
 ”اَقْرَبْتُ اُمَّ بَعِيْدًا مَا تُوعَدُوْنَ“ اور بھی نل
 کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے هَلْ يَسْتَوِي
 اَلْاَعْمَى وَ اَلْبَصِيْرُ اَمْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ
 وَ النُّوْرُ۔
 اَمَّ (ن) اَمًّا وَ اَمَّمْ وَ اَمَّمْتُمْ : قصد کرنا

وَأَمَّهُ جِنْدِيَارًا رَابِعًا دَمًا بِرُصَدٍ مِثْلَ بَيْتَانَا
 _____ إِمَامَةٌ وَأَمَّا وَأَمَامًا الْقَوْمُ وَالْقَوْمُ :
 امام بنا۔

أَمَّتْ أُمُومَةُ سَالًا هَوْنَا

تَامَمَ الْمَرْأَةُ : مَالٌ بَنَاتَا

إِقْتَمَ بِهِ : اِقْتَدَا كَرْنَا _____ وَاسْتَأَمَّ هـ : اِمَامٌ
 بَنَاتَا : اسْتَأَمَّ الْمَرْأَةُ : مَالٌ بَنَاتَا

الْأُمُّ : مَالٌ - كَسِي قِيزِ كِي اَصْلُ حِ اَمَهَاتِ
 وَأَمَاتٌ اَوْرِي قَوْلٌ بَعْضُ اَمَهَاتِ اِنْسَانِ كِي لِي
 اَوْرَامَاتِ بَاهَمُ كِي لِي - اُمُّ اَرْبَعٍ وَارْبَعِيْنَ :
 كَنٌ كَجُورًا - اُمُّ اَوْرَا ص : خَتِي - كَجَلِي جِيهَا - اُمُّ

الْبَيْضِ : شَتْرَمَغُ - اُمُّ التَّنَائِفِ : ذُورُ كَا جَلُ - اُمُّ
 تَوَلَّبَتْ : كَدَمِي - اُمُّ حَبَابِ : بَرِي سِي - اُمُّ جُنْدَبِ :
 ظَلَمَ رِبِي اِنْسَانِي - اُمُّ الْجِرَافِ : ذُورُ - زُحَالٌ - اُمُّ

جَعْفَارٌ : بَجُو - اُمُّ جَعْمَانِ : كَدَمِي - اُمُّ الْجَيْشِ :
 جَنْدَا - اُمُّ حَبَابِ : ذُنِيَا - اُمُّ حَبِيبِ : بَرِي سِي - اُمُّ
 حَزْبِ : جَنْدَا - اُمُّ حَفْصَةَ : مَرْغِي - اُمُّ حَلِيسِ :

كَدَمِي - اُمُّ الْخَبَائِثِ : شَرَابٌ - اُمُّ خِنَافِ :
 خَتِي - اُمُّ خِنَوْرٍ : بَجُو - اُمُّ ذَرَنِ : وِنِيَا - اُمُّ ذَرِينِ :
 قَطْ زَهْ سَرِي زِينِ - اُمُّ وَرْزَةَ : وِنِيَا - اُمُّ دَفْرٍ وَ اُمُّ

ذَفَارٍ : وِنِيَا - اُمُّ الدِّمَاقِ : دَمَاغُ كِي جَمَلِي - اُمُّ
 الرِّاسِ : دَمَاغُ يَدَمَاغُ كِي جَمَلِي - اُمُّ رَاشِدِ : جِيهَا - اُمُّ
 الرِّبِيْقِ : خَتِي وِيلا - اُمُّ الرُّومِجِ : جَنْدِي - اُمُّ

سَمْحَةَ : كَبْرَا - اُمُّ سُوَيْدِ : ذُرِي - اُمُّ صَبَّارِ وَ اُمُّ
 صَبُورِ : بِلَا وِخْتِ لِرَاكِي - اُمُّ الصَّبِيَانِ : اِيكِ نَسْمِ
 كِي بِيَارِي جُو تِي جُو كُو لَاقِحِ هُو تِي هِي اَوْرِ جِسِّ سِي

بِي تَجَبِي هُو شِ هُو جَا تِي هِي - اُمُّ طَلْبِقِ : خَتِي وِيلا -
 سَابِ - اُمُّ الظَّرْبِقِ : شَارِعِ عَامِ - اُمُّ الطَّعَامِ :
 مَعْدِي - كِي سُوِي اُمُّ عَايِرِ : بَجُو - اُمُّ عَرِيْطِ : كَجُورِ - اُمُّ

عَزْمِ : وِيلا - اُمُّ قُرُوَّةِ : بِيْمِيَرِ - اُمُّ الْقُرُوجِ : اِيكِ نَسْمِ كَا
 كَهَانَا جُو كُو شِ جَاوِلِ شُكْرِي سِي تَارِ كَر تِي هِي اَوْرِ
 يَقُولُ بَعْضُ اِيكِ نَسْمِ كِي رُو تِي جِسِّ مِي سِي پَرِي اَوْرِ

كَبْرِي كَا كُو شِ بَهْرُ كَر تُو رِ مِي پَا كَتِي هِي - اُمُّ
 الْقُرِي : كَمَكِ مَعْظَرِ - اُمُّ الْقُرْآنِ : سُوْرَةُ فَاتِحَةِ - اُمُّ
 قَشْمِ : خَتِي - جَنَكِ - مَوْتِ - بَجُو - كَزِي - اُمُّ

الْقَوْمِ : سَرْدَا رِ قَوْمِ اُمُّ الْكِنَابِ : لَوْرِي مَحْفُوْظِ -
 سُوْرَةُ فَاتِحَةِ يَا كِلِ قُرْآنِ يَا كِ - اُمُّ كَتَلَبِ : اِيكِ
 پَهَارِي وِرِخْتِ كَا نَامِ - اُمُّ كَلْبَةِ : بَخَارِ - اُمُّ مَازَنِ :

جِيو تِي - اُمُّ الْمَثْوِي : بِيوِي - اُمُّ مِلْدَمِ : بَخَارِ - اُمُّ
 النُّجُومِ : كَلْبَتَا - اُمُّ الْوَلِيدِ : مَرْغِي - اُمُّ هُبَيْرِ :
 مِيْزَكِي - لَا اُمُّ لَكُ : كَلِمَةُ زَمِ هِي اَوْرِ كَسِي مَرْحِ

وَاسْتِحْسَانِ كِي مَوْقِعِ پَرِ بِي بُو لِي تِي هِي
 الْأَقَامِ : آگِي - وَ اَمَامَكَ : كَلِمَةُ تَحْدِيْرِ هِي -
 بِمَعْنَى بَجُو -

الْاِقَامِ : (فِرْدُو مَوْنُثِ دُونُوں كِي لِي) بِيْشِ
 اِمَامِ - جِسِّ كِي اِقْتِدَا كِي جَا تِي - پِيْشُوَا - ذُوْرِي جِسِّ
 سِي مَعْمَارِ عِمَارَتِ كِي سِي دِهِي قَا مِ كَر تِي هِي -

نَمُوْنَه - وَ اَضَحِ رَاسْتِه - سِتِي جِتَا هَرِ رُوْزِ لُكِي
 پَرِ هِي سِي - قُرْآنِ - خَلِيْفَه - اِمِيْرُ لِكْتَرِ - مَصْلُحِ اَوْرِ مَنَظْمِ -
 الْاِمَامَةُ - خِلَافَتِ وَ پِيْشُوَا تِي -

الْاُمَّةُ جَمَاعَتِ - لُوْگُوں كَا رُوْهِي ' طَرِيْقَه - وَ قِوْتِ - قَدِ
 وَ قَا مَتِ -
 الْاُمِّي : اِنِ پَرِ هِي -

الْاُمِّيَّةُ وَ الْاُمُومَةُ : مَالِ هُوْنَا - مَادَرِي سِي -
 الْاِيْمَانِ وَ الْاِيْمَانُومِ : جِسِّ كِي كَدَمِي پَرِ اَرَا كِيَا هُو -
 الْاُمِّيَّةُ : لَفْظِ اُمِّ كِي تَغْيِيْرِ - مَشْهُورَا - جِ اَمَانِيْمِ -

الْاُمِّيَّةُ : بِيْخَرِ جِسِّ سِي سِرْ كِيلا جَا تِي -
 اَمَا - حَرْفِ تَمِيْمِ هِي اِسْ كِي بَعْدِ اَكْثَرِ نَسْمِ اَتِي
 هِي جِي سِي اَمَا وَ اللّٰهُ : حَرْفِ عَرْضِ جِي سِي " اَمَّا تَنْزَلُ

بِنَا " -
 اَمَّا حَرْفِ شَرْطِ وَ تَا كِيْدِ جِي سِي " اَمَّا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا
 فَيَعْلَمُوْنَ اِنَّهُ الْحَقُّ " جُو كُو اِيْمَانِ لَا تِي وَا سِ

كِي قِنِ هُو تِي پَرِ تِيْمِيْنِ رَكْتِي هِي - حَرْفِ تَفْصِيْلِ
 جِي سِي " اَمَّا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ " اِسْ كِي جَوَابِ مِيں فَا وَا كَا تَا
 ضَرُوْرِي هِي -

اَمَّا حَرْفِ تَفْصِيْلِ هِي جِي سِي اِنَّا هَذِيْ نَسْمَةُ السَّبِيْلِ
 اِمَّا شَا كِيْرَا وَ اِمَّا كَفُوْرَا " هَمِ لِي اِنْسَانِ كُو رَاسْتِ
 وَا كَلَا وَا اِسْ كِي بَعْدِ هِي شُكْرِ اَرَا بِنْدِهِي بِيْ يَانَا شُكْرَا

بَلْ كَرِ جِي تِي - اَوْرِ اِسْ كِي مَوْقِعِ اسْتِمَالِ مِيں سِي
 مَوْضِعِ شُكْ وَ اِبَاهَامِ وَ اِيْحَاتِ وَ تَجْمِيْرِ هِي جِي سِي " جَاءَ
 اِمَّا زِيْدٌ وَ اَمَّا عَضُوْ " - اِيْمَنِي يَا زِيْدِ اَيَا عَمْرُو - جِيكِي سِي

مَعْلُوْمِ نِهِي هُو كِي اِنِ دُونُوں مِيں سِي كُوْنِ اَيَا - اَوْرِ
 جِي سِي تَعْلَمِ اِمَّا اَلْفِيْقَه وَ اِمَّا اَللُّغَةُ - اِيْمَنِي يَا فَعْدِ يَا لَعْتِ
 سِي كِي هِي -

اَمْتَهْ (ض) اَمْتَا وَ اَمْتَهْ : اِنْدَا زِهِي كَرْنَا - قَصْدِ كَرْنَا -
 الْاَمْتِ : كَمْزُوْرِي - بِلَنْدِ جِيكِي - شُكْ - خَالِي هُوْنَا -

تَشْيِيْبِ وَ فِرَا زِ - جِ اَمَاتِ وَ اَمُوْتِ -
 اَمِيْحِ (ض) اَمْتَحَا - كَرْمِ هُوْنَا - يِيَا سَا هُوْنَا - (ض)
 اَمْتَحَا - تِيْمِزِ پَلْنَا -

صَنِيفٌ اَمِيْحِ : خِنْتِ كَرْمِي -
 اَمِيْحِ (ض) اَمْتَحَانَا - الْجُخُوحُ : وِرُوْرُ كَرْنَا -
 اَمِيْدَا (ض) اَمْتَدَا - عَلِيْنِي : مَشْطِيْنَا كِ هُوْنَا -

اَمْتَدَا - مَتِ بِيَا نِ كَرْنَا _____ السِّيْقَا : اِيكِي
 قَطْرَهِي نِهِي جَمُوْرَا -

الْاَمْتَدَا : نَا مَتِ - آخِرِي حِدِ - غَمْتَهِي - جِ اَمَادِ - كَمَا
 جَا تَا هِي " ظَالٌ عَلَيْهِمْ الْاَمْتَدَا " اِنِ كِي اَوْرِ
 مَتِ طَوِيْلِ هُو تِي -

الْاَمِيْدُو الْاَمِيْدَةُ - بَجْرِي هُو تِي كَشِي -
 اَمْرَةٌ (ن) اَمْرًا وَ اَمْرَةٌ وَ اِمَارًا - حَكْمِ دِيْنَا -
 صِفْتِ اَمِيْرِ اَوْرِ صِفْتِ مَفْعُوْلِي مَافُوْمِ - كَمَا جَا تَا هِي

" اَمْرَةُ الشَّيْءِ وَ بِالشَّيْءِ وَ اَمْرَةٌ اَنْ يَفْعَلَ وَ يَأْنِ
 يَفْعَلُ " اِسْ لِي اِسْ كُو كَسِي كَلِمِ كِي كَر تِي يَا بِنَا تِي
 كَا حَكْمِ دِيْنَا -

اَمْرًا (س) اَمْرًا وَ اَمْرًا (ك) اَمْرًا وَ اِمَارَةً : اِمِيْرِ
 وَ حَا كِمِ هُوْنَا _____ عَلِيْنِهِي : وَاوَلِ هُوْنَا -

اَمْرًا (س) اَمْرًا وَ اَمْرَةَ الشَّيْءِ : بَسْمِ هُوْنَا -
 الرَّجُلُ : بَسْمِ مِيوِيْ كِي كَا لِكِ هُوْنَا - صِفْتِ اَمْرِ -
 اَمْرَةٌ - اِمِيْرُو حَا كِمِ هُوْنَا -

اَمْرَةٌ مَوْ اَمْرَةٌ - فِي اَمْرِ : مَشُوْرِهِي كَرْنَا -
 اَمْرًا وَ اِمَارَةً : حَكْمِ دِيْنَا _____ هُو اللّٰهُ : نَالِ يَانِ لِ
 بُو دِهَانَا -

قَامَرًا وَ اَنْتَمَرًا وَ اِسْتَمَرًا - مَشُوْرِهِي كَرْنَا - قَامَرًا
 عَلِيْنِهِي : تَسْلُطِ هُوْنَا - زَبُوْرِي كَرْنَا - اَنْتَمَرًا اَمْرًا وَ يِهِي
 : فِرْمَا نِ بُو دَارِي كَرْنَا -

اَنْتَمَرًا وَ اَمْرًا وَ اَمْرًا - اِمَامِ مَشُوْرِهِي كَرْنَا - اَنْتَمَرًا
 بِفُلَانِ : كَسِي كِي لُكِي كِي سَا زِشِ كَرْنَا -
 الْاَمْرُ - جِ اَوْرِ اِمِيْرِ : حَكْمِ - فِرْمَا نِ - جِ - اَمُوْرِ - كَامِ -

وَ اَقْدِهِي - جِيْ جِي سِي " لَا مَرْمَا كَانِ كَذَا " كَسِي جِيْرِي
 وَ جِي سِي اِيَا هُوَا - " وَ لُو الْاَمْرُ : اِسْلَامِي حَكُوْمَتِ
 كِي حَكَا مِ وَ عِلْمَا -

الْاَمْرَةُ - اِمْرَا كَا مِ مَرَّةِ -
 الْاَمْرَةُ - اِمْرَا كَا مِ نَوْعِ - حَكُوْمَتِ - وَ لَا يَتِ -
 الْاَمْرَةُ - بِيَا نِ مِيں پَتْرَا كَا چَمُوْنَا نَشَانِ - چَمُوْنَا
 ثِيْلِهِي - جِ اَمْرًا -

امانت رکھی جائے۔ حج اماناء۔
 البَيْئَةُ الْاَمِينَةُ۔ مکہ معظمہ۔
 الْاَمَانُ: امانت دار۔ معتمد علیہ۔ کاشتکار۔ وہ
 شخص جو لکھنا جانتا ہو۔
 آمین و آمین: اسم فعل بمعنی قبول کر۔
 الْمُؤْمِنُ: مان لینے والا۔ تصدیق کرنے والا نیز
 اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔
 الْمُتَّامُونَ: معتمد علیہ۔
 الْمُضَامِنُ: امن دہنے والی جگہ۔
 اَمِيَةٌ (س) اَمِيَةٌ وَ اَمِيَةٌ الشَّيْءِ: بھولنا۔
 اَمِيَةٌ (ن) اَمِيَةٌ: اَلَيْهِ فِي الْاَمْرِ: عمد دیکھنا
 کرتا۔
 قَامَةُ الْمَرْأَةِ: بل بنانا۔
 الْاَمِيَّةُ: بکری کی چمپ یا پھنسیاں جو بکری کو
 ہوتی ہیں۔
 اَمَانٌ (و اَمِيٌّ) (س) وَ اَمِيٌّ (ض) اَمِيَّةٌ: اَمِيَّةٌ
 الْجَارِيَةُ: باندی ہونا۔
 اَمِيَّةٌ (ن) اَمِيَّةٌ: السِّتْرُ: سیاہی سیاہی
 کرتا۔
 اَمِيَّةٌ الْجَارِيَةُ: باندی بنانا۔
 قَامِيٌّ وَ اِسْتَامِيٌّ: الْجَارِيَةُ: باندی بنانا۔
 الْاَمِيَّةُ: ارندی۔ اِنْدِي: حج اماناء و اموات
 وَ اَمِيَّةٌ: نسبت کے لیے اَمِيَّةٌ: تفسیر اَمِيَّةٌ۔
 اَمِيَّةٌ: قریش کا ایک قبیلہ۔ نسبت کے لیے
 اَمِيَّةٌ: اور سیاہ وقت اَمِيَّةٌ: بھی کہتے ہیں۔
 اَمِيَّةٌ (۱) حرف مصدری ہے فعل مضارع کو
 نصب دیتا ہے جیسے ”اَنْ تَقْضُوْهُ اَخِيْرًا لِّكُمْ“
 یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔
 (۲) عطف ہے اَنْ مثلاً سے اور افعال تہین یا
 ان کے مشابہ کے بعد آتا ہے جیسے ”عَلِمَ اَنْ
 سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضِيٌّ“ اللہ نے جان لیا کہ
 تم میں سے بیمار ہوں گے۔ ”حَسِبُوْا اَنْ
 لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ“ لوگوں نے گمان کر لیا کہ
 آزمائش نہیں ہوگی۔
 (۳) مفرہ بمعنی آجی جیسے ”فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنْ
 اصْنَعِ الْفُلْكَ“ پس وحی بھیجی ہم نے طرف
 اس کی یہ کہ بنا کشتی کو۔
 (۴) زائدہ تاکید کے لیے جیسے ”لَمَّا اَنْ جَاءَ

اَمِيْعٌ كِي اَصْلٍ وَ اَمِيْعٌ مَعْلَكٌ ہے۔ اَمِيْعَةٌ كِي تَا تَا
 تاسیہ کی نہیں مبالغہ کے لئے ہے۔
 قَامِعٌ وَ اِسْتَامِعٌ: ہر ایک کی رائے کا تابع ہونا۔
 اَمِيْعٌ الْعَيْنِ: ناک کی طرف کا آنکھ کا گوشہ حج
 اَمَاقُ۔
 اَمَلَةٌ (ن) اَمَلَةٌ وَ اَمَلَةٌ تَامِيْلًا: اُمید کرنا۔
 قَامَلٌ: الْاَمْرُ وَ لَمِيْعٌ: غور کرنا۔ دیر تک سوچنا۔
 الْاَمَلُ وَ الْاَمَلُ: اُمید حج اَمَالُ۔
 الْاَمَلَةُ: اُمید۔
 الْاَمَلَةُ: وہ لوگ جن کی مدد کی اُمید رکھی جائے
 واحد اَجَلُ۔
 الْمُعَامَلُ: اُمید۔ جس کی اُمید رکھی جائے۔
 الْمُؤْمَلُ: گھوڑوں میں اُٹھوس نمبر کا گھوڑا۔
 اَمْنٌ (ك) اَمَانَةٌ: اَمِنَ ہونا۔ امانت دار ہونا۔
 معتمد علیہ ہونا۔ صفت اَمِنَ: حج اَمِنَاءُ۔
 اَمِنٌ (ض) اَمِنًا: اِحتماد کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ مائل ہونا۔
 صفت اَمِنُ۔
 اَمِيْنٌ (س) اَمِنًا وَ اَمَانًا وَ اَمِنَةٌ: مطمئن
 ہونا۔ صفت اَمِيْنٌ وَ اَمِيْنٌ وَ اَمِيْنٌ۔
 اَلْاَسَدُ وَ مَنَةٌ: محفوظ رہنا۔
 اَمِنٌ: اَمِنَ کَمَا: ؕ: امن و اطمینان میں
 کرتا۔
 اَمِنٌ وَ اَمِنٌ: فَلَا نَا عَلٰی كَذَا: کسی کو کسی چیز
 کا امن بنانا۔ اَمِنَةٌ: اَمِنَ سمجھنا۔
 اَمِنَةٌ اِمَانًا: اس دن رات: یہ تصدیق کرتا۔
 اِحتماد و بھروسہ کرنا: لَه: تاجدار و مطلع ہونا۔
 اِسْتَامَعْتُ: امن طلب کرنا۔ امن سمجھنا
 عَلِيًّا كَذَا: امن بنانا۔
 الْاَمِنَةُ: اطمینان۔ دل کا سکون۔ امانت۔ ہر ایک
 پر بھروسہ کرنے والا۔
 الْاَمِنَةُ: معتمد علیہ۔
 الْاَمِيْنَةُ: آرزو حج اَمَانِيٌّ وَ اَمَانٌ۔
 الْاَمَانَةُ: امانت۔ ودیعت۔ حج اَمَانَاتُ فَرِيضَةٌ
 خداوندی۔
 الْاِمْنَانُ: مان لینا۔ تصدیق کرنا۔
 الْاَمْنُونُ: سواری جس کے ٹھوکر کھانے کا خوف
 نہ ہو۔ حج اَمْنُنُ۔
 الْاَمِيْنُ: امانت دار۔ وہ شخص جس کے پاس

الْاَمَانَةُ: علامت۔ حج اَمَانَاتُ۔
 الْاَمْرُ: عجیب۔ خلاف شرع و خلاف عقل سلیم
 بات۔
 الْاَمْرُ وَ الْاَمْرَةُ: کمزور رائے والا۔ کہا جاتا ہے
 ”مَالَهُ اَمْرٌ وَ لَا اَمْرَةٌ“ یعنی اس کے پاس کچھ
 نہیں۔
 الْاَمَارُ: بہت حکم دینے والا۔ برائی پر اُکسانے
 والا۔ مؤنث: اَمَارَةٌ۔
 التَّامُوْرُ: برتن۔ دل۔ بادشاہ کا وزیر۔
 التَّامُوْرَةُ: راہب کا صومعہ۔ شیر کا بھجار۔
 التَّامُوْرِيُّ وَ التَّامُوْرِيُّ وَ التَّامُوْرِيُّ: انسان۔
 الْاَمِيْرُ: حکم دینے والا۔ والی قوم۔ شریف
 آدمی۔ اس کلمہ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو
 شریف الاصل ہو اگرچہ صاحب آمر نہ ہو۔
 پڑوسی۔ وہ شخص جس سے مشورہ کیا جائے۔
 اَمِيْرُ الْبَحْرِ: بحری کمانڈر۔
 اَمِيْرُ الْاَمِي: فوج کے ایک دستہ کا افسر یا بحری
 بیڑے کا کپتان۔ حج اَمِيْرَاءُ۔
 الْاَمَالُ الْاَمِيْرِيُّ: شاہی ٹیکس۔
 اَلْمُوْتَمَرُ: کانفرنس۔
 اَلْمُوْتَمَرُ: فا: خورد رائے۔ ایام مجوز کا آخری
 دن۔
 الْمُسْتَمَرُ: مشورہ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَا نَبِيْعِيْنًا مِنْ
 الْمُسْتَمَرِ قَرِيْبًا مِنَ الْمُسْتَمَرِ“ وہ مشورہ سے بعید
 اور چٹلی سے قریب ہے۔
 اَمْسٌ: مبنی علی الکتس: کل گذشتہ۔
 الْاَمْسُ: (اعرابی حالت میں) گذشتہ ایام میں
 سے کوئی دن۔ حج اَمْسٌ وَ اَمْسٌ وَ اَمْسٌ۔
 نسبت کے لئے اَمْسِيٌّ: خلاف قیاس۔
 الْاَمِيضُ وَ الْاَمِيضُ: وہ گوشت جس کو
 باریک کر کے کچا کھاتے ہیں۔ اور کبھی ذرا آگ
 دکھلا لیتے ہیں۔
 اَمِيضٌ (س) اَمِيضًا: الْوَجَلُ: کسی کام کا پختہ
 ارادہ کرنا اور کسی کی ناراضی کو خاطر میں نہ لانا۔
 ملحق الضمیر کے خلاف بے باکانہ ہونا۔
 الْاَمِيْعُ وَ الْاَمِيْعَةُ: ہر ایک کی رائے کی پیروی
 کرنے والا۔ لوگوں کے ساتھ بغیر بلائے ہوئے
 دعوت میں شریک ہونے والا۔ حج اَمِيْعُوْنُ۔ اور

هَذِهِ اللَّيْلَةُ بَعْدَ مَوْتِهَا" اللهُ اس بستی کو کیونکر
زندہ کرے گا اور اسی سے ہے "فَأَتُوا حَزْلَكُمْ
أَنِّي سَيِّئٌ"

أَهْوَأُوهُ وَأَوْهَوُوهَا وَأَوْهَوُوهَا وَأَوْهَوُوهَا
أَهْ (ن) أَهْ وَأَهَّةٌ وَأَهَّةٌ وَأَهَّةٌ وَأَهَّةٌ أَهْ آه
کرتا۔

أَهَبْتُ وَأَهَبْتُ لِلْأَمْرِ: تباروا آدوہ ہوتا۔
الْأَهْبَةُ: سامان۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ لِلشَّيْءِ
أَهْبَةً" اس نے سامان سخر لیا۔

الْأَهَابُ: کھل۔ کچی کھل۔ ج۔ اُهْبُ وَأَهَبْتُ
وآبِة۔

الْأَهْرَةُ: گھریلو سامان۔ اچھی حالت۔ بیت۔ ج۔
أَهْرُ وَأَهْرَاتُ۔

أَهْلٌ (ن) ض) أَهْلًا وَأَهْلًا: الرَّجُلُ: شادی
شدہ ہونا۔ اِهْرَاةٌ: نکاح کرتا۔ صفت
مغھولی (مماھولۃ)

أَهْلٌ (س) أَهْلًا بِهِ: اُس حاصل کرتا۔
أَهْلٌ: الْمَكَانُ أَوْ الْبَيْتُ: آباد ہونا۔ صفت

أَهْلٌ وَمَاهُولٌ
أَهْلَةٌ: إِنِّهَا لَا شَادِي كَرِيئًا) (س) وَأَهْلَةٌ
لِلْأَمْرِ: لائق بنانا یا سمجھنا۔ اَهْلٌ بِهِ: کسی سے

أَهْلًا وَسَهْلًا كَمَا:
تَاهَلُّ وَأَهْلُ: شادی شدہ ہونا۔ تَاهَلُّ
لِلْأَمْرِ: لائق ہونا۔

إِسْتَاهَلَ الشَّيْءَ: کسی چیز کا اہل ہونا۔
الرَّجُلُ: لائق سمجھنا۔ اسْتَاهَلَ: کھیل
ہوئی چرلی لینا یا کھانا۔

أَهْلًا وَسَهْلًا: خوش آمدید۔ تقدیر عمارت کی
یوں ہے "صَادَقَتْ أَهْلًا لَا عُرْبَاءَ وَوَطِنَتْ
سَهْلًا لَا عُرْوًا" تو نے اپنے لوگوں کو پایا، جنہیں
کو نہیں اور نرم زمین میں آسخت میں نہیں۔

الْأَهْلُ: کنبہ۔ رشتہ دار۔ ج۔ أَهْلُونَ وَأَهْلِي
وَأَهَالٍ وَأَهْلَاتٍ وَأَهْلَاتُ: أَهْلُ الرَّجُلِ:
بیوی۔ أَهْلُ الْأَمْرِ: حکام۔ أَهْلُ الْمَذْهَبِ:
شیعین مذہب۔ أَهْلُ الْوَيْبِ: بدو۔ أَهْلُ الْمَدِينِ
وَالْحَضَرِ: عرب کے شہری۔

الْأَهْلِيَّةُ: قابلیت۔
الْأَهْلِيَّةُ وَالْأَهْلِيَّةُ: پالتو جانور وغیرہ۔

أَنْفٌ: تَعَبٌ فِي ذَاتِنَا۔
أَنْفَةٌ إِتْقَانًا وَنَيْفًا: تَعَبٌ فِي ذَاتِنَا۔ نَيْفًا مَصْدَرٌ
خلاف قیاس ہے۔

تَأْتَقُّ: نَفَاسَتٌ بِسِنْدٍ هُوَ فِي الْكَلَامِ أَوْ
الْقَمَلِ: اچھی طرح کرنا۔ الْمَكَانَ: پسند
آنے کی وجہ سے جدا نہ ہونا۔

الْأَنْفَاقُ وَالْإِنْفَاقَةُ: حَسَنٌ بِسِنْدِيَّةٍ۔
الْأَنْفُوقُ: عِقَابٌ "هُوَ عَزْمٌ مِنْ بَيْضِ الْأَنْفُوقِ"
وہ عقاب کے انڈے سے زیادہ کیاب ہے۔ بطور
مش کے اس چیز کے لیے بولتے ہیں جس کا حصول
محال ہو۔

أَنْتَ (ن) أَنْتَا: الشَّيْءُ: بڑا اور موٹا ہونا۔
الْأَنْتَ: سیدہ۔ ایک گلوے کو انکے کہتے ہیں۔
الْأَنْتَكَلِيْسُ: بارہائی۔
الْأَنْتَامُ وَالْأَنْتَامُ وَالْأَنْتَامُ: مخلوق۔ اِنْمٌ کا استعمال
صرف اشعار میں ہوتا ہے۔
الْأَنْيَ: (ض) أَنْيَا وَأَنْيَا وَأَنْيَا: ثَانِيَةً: قَرِيبٌ
ہونا۔ آنا۔ التَّبَاتُ پک جانا۔
أَنْيَ يَأْنِي وَأَنْيَ (س) أَنْيَا وَأَنْيَا: دُورٌ كَرِيئًا
رہنا۔ صفت أَنْيٌ
أَنْيَ: اِيْتَاءٌ فَلَانًا: دُورٌ كَرِيئًا۔ بِيحْيَى وَذَاتِنَا۔
تَأْنِي: اِسْتَأْنِي: فِي الْأَمْرِ وَبِهِ: اچھی طرح
غور فکر کرنا۔ الرَّجُلُ: مَمْلُوتٌ۔
الْأَنْاءَةُ: بوقار۔ بردباری۔ اِنْتَارًا مَمْلُوتٌ۔
الْأَنْاءَةُ وَالْأَنْيَ وَالْأَنْيَ: بَاقِيَةً: اِيْتَاءٌ وَبِحْيَى
الْأَنْيَ: بردباری۔ نرمی۔ پورا دان یا اس کا ایک
جزو۔ ج۔ اِنَاءٌ وَأَنْيَ: كَمَا جَاءَ فِي "اِنَاءَةُ اللَّيْلِ
وَأَطْرَافِ النَّهَارِ" یعنی رات اور دن۔
رَجُلٌ: اِنْ: بردبار اور سنجیدہ مرد۔
الْأَنْاءَةُ: برتن۔ ج۔ اِنَاءَةٌ وَجِ: اَوْ اِنْ
أَنْيَ: (۱) طرف مکان ہے اور دو فعلوں کو مجزوم
کرتا ہے جیسے "أَنْيَ تَجْمِضُ أَجْمِضُ" جہاں تو
بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔
(۲) بمعنی کہاں سے جیسے "أَنْيَ لَكَ هَذَا" یعنی
تمہیں یہ کہاں سے حاصل ہوا؟
(۳) طرف زمان بمعنی کب جیسے "أَنْيَ جِئْتُ"
تم کب آئے؟
(۴) استغماہ بمعنی کیف جیسے "أَنْيَ يَخْبِي

الْأَنْيَسُونَ: اِنْسُونٌ (ایک دو اکانام)
أَنْضُ (ض) اِنْيَضًا: اللُّحْمُ: خَرَابٌ هُوَ: بِلُزْ
جاتا۔

أَنْضُ (ن) اِنْيَضًا: خَوْفٌ كِي وَجْهٍ سَ عَمَلٍ كَا
حسرت کرتا۔
أَنْضُ اِنْيَضًا: اللُّحْمُ: نِسْمٌ بَرِيءٌ كَرِيئًا۔
أَنْفٌ (س) أَنْفًا: مِنَ الْعَارِ: خُورٌ دَرِيءٌ نَائِبٌ
کرتا۔ صفت (أَنْفٌ) اور اسم (الْأَنْفَةُ)
الْبَيْهِيَّةُ: ناک میں درد ہونا۔ صفت (أَنْفٌ)
أَنْفُهُ (ن) ض) أَنْفًا: نَاكٌ بِرَمَارَتَا۔

اِنْتَفَفَ: اِسْتَأْنَفَ: الشَّيْءُ: اِسْرَؤُؤُ كَرِيئًا۔ اِدْر
اسی سے ہے "اِسْتَأْنَفَ الدَّعْوَى" یعنی اس نے
اہل کی۔

الْأَنْفُ: نَاكٌ: أَنْفُ الْحَيْبَلِ: پھاڑ کا کھلا ہوا
گوشہ۔ "أَنْفٌ كُلُّ شَيْءٍ" ہر چیز کی ابتدا۔ کہا جاتا
ہے "مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ" ہوا اپنی طبعی موت مرا۔
رَغِيمٌ أَنْفُهُ: دُورٌ زَيْلٌ هُوَ: حَيْبِي أَنْفُهُ: دُورٌ غَالِبٌ
زبردست ہونا۔ ج۔ اِنْفًا وَأَنْفٌ وَأَنْفٌ وَأَنْفٌ۔

أَنْفًا: اِيحْيَى: كَمَا جَاءَ فِي "ذَكَرْتَهُ أَنْفًا" مِثْلَ
اس کو ابھی یاد کیا۔ یہ ہمیشہ برناتے ظریفت
منسوب ہوتا ہے۔

أَنْفَةُ الشَّبَابِ: اِنْفَارٌ جَوَانِي: كَمَا جَاءَ فِي
"مَضَتْ أَنْفَةُ الشَّبَابِ" جوانی کی مستی ختم ہو
گئی۔

الْأَنْفُ: مِنَ الزِّيَاضِ: دُورٌ سَرِيحٌ وَشَادَابٌ
حصہ زمین جس کو کسی جانور نے چرانہ ہو۔
كَأَشْ۔

أَنْفٌ: دُورٌ يَالٌ جِسِّ سَ كِي نَ بِيَانَهُ هُوَ۔
الْأَنْفُ: نَرْمٌ لُوبًا: تَمَامٌ زَمِيْمٌ سَ پَمَلِ
پیداوار آگے والے لہاڑ۔

رَجُلٌ: اِنْفِي: بَرِيءٌ نَاكٌ وَالْمَرْدُ۔
الْمُسْتَأْنَفُ: مِنَ الْأَمْرِ: دُورٌ كَلَامٌ جِسِّ كُو اِيحْيَى
کسی نے نہ کیا ہو۔

أَنْفٌ (س) أَنْفًا: خُوشٌ هُوَ: الشَّيْءُ: بِسِنْدٍ كَرِيئًا
بِهِ: بِسِنْدٍ كَرِيئًا وَرَمَاؤُؤُ بَرِيحٍ رِيئًا
الشَّيْءُ: خُوبُصُورَتٌ وَتَعَبٌ اِكْمِيَزُ هُوَ: صَفْتٌ
أَنْفٌ وَانْفٌ وَنُؤْفٌ: كَمَا جَاءَ فِي "رُؤْفَةُ اِنْفِي وَ
أَنْفَةُ" خُوبُصُورَتٌ بَلُغٌ۔

أَنْفٌ: دُورٌ يَالٌ جِسِّ سَ كِي نَ بِيَانَهُ هُوَ۔
الْأَنْفُ: نَرْمٌ لُوبًا: تَمَامٌ زَمِيْمٌ سَ پَمَلِ
پیداوار آگے والے لہاڑ۔

رَجُلٌ: اِنْفِي: بَرِيءٌ نَاكٌ وَالْمَرْدُ۔
الْمُسْتَأْنَفُ: مِنَ الْأَمْرِ: دُورٌ كَلَامٌ جِسِّ كُو اِيحْيَى
کسی نے نہ کیا ہو۔

أَنْفٌ (س) أَنْفًا: خُوشٌ هُوَ: الشَّيْءُ: بِسِنْدٍ كَرِيئًا
بِهِ: بِسِنْدٍ كَرِيئًا وَرَمَاؤُؤُ بَرِيحٍ رِيئًا
الشَّيْءُ: خُوبُصُورَتٌ وَتَعَبٌ اِكْمِيَزُ هُوَ: صَفْتٌ
أَنْفٌ وَانْفٌ وَنُؤْفٌ: كَمَا جَاءَ فِي "رُؤْفَةُ اِنْفِي وَ
أَنْفَةُ" خُوبُصُورَتٌ بَلُغٌ۔

أَنْفٌ (س) أَنْفًا: خُوشٌ هُوَ: الشَّيْءُ: بِسِنْدٍ كَرِيئًا
بِهِ: بِسِنْدٍ كَرِيئًا وَرَمَاؤُؤُ بَرِيحٍ رِيئًا
الشَّيْءُ: خُوبُصُورَتٌ وَتَعَبٌ اِكْمِيَزُ هُوَ: صَفْتٌ
أَنْفٌ وَانْفٌ وَنُؤْفٌ: كَمَا جَاءَ فِي "رُؤْفَةُ اِنْفِي وَ
أَنْفَةُ" خُوبُصُورَتٌ بَلُغٌ۔

أَنْفٌ (س) أَنْفًا: خُوشٌ هُوَ: الشَّيْءُ: بِسِنْدٍ كَرِيئًا
بِهِ: بِسِنْدٍ كَرِيئًا وَرَمَاؤُؤُ بَرِيحٍ رِيئًا
الشَّيْءُ: خُوبُصُورَتٌ وَتَعَبٌ اِكْمِيَزُ هُوَ: صَفْتٌ
أَنْفٌ وَانْفٌ وَنُؤْفٌ: كَمَا جَاءَ فِي "رُؤْفَةُ اِنْفِي وَ
أَنْفَةُ" خُوبُصُورَتٌ بَلُغٌ۔

أَنْفٌ (س) أَنْفًا: خُوشٌ هُوَ: الشَّيْءُ: بِسِنْدٍ كَرِيئًا
بِهِ: بِسِنْدٍ كَرِيئًا وَرَمَاؤُؤُ بَرِيحٍ رِيئًا
الشَّيْءُ: خُوبُصُورَتٌ وَتَعَبٌ اِكْمِيَزُ هُوَ: صَفْتٌ
أَنْفٌ وَانْفٌ وَنُؤْفٌ: كَمَا جَاءَ فِي "رُؤْفَةُ اِنْفِي وَ
أَنْفَةُ" خُوبُصُورَتٌ بَلُغٌ۔

الْأَهْلُ: بال تخم والـ
 الْإِهَالَةُ: بجملي ہوئی چلی۔ ہر وہ روغن جس کو بلور ساکن کے استعمال کیا جائے۔
 الْمَاهُولُ: آلودگان۔
 أَوْ: حرف عطف میں سے ہے اور اس کے مواقع استعمال حسب ذیل ہیں۔
 (۱) شک جیسے "لَيْسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ" ہم ایک دن یا دن کے کچھ حصہ میں ٹھہرے۔
 (۲) ابہام جیسے "نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ" ہم یا تم حق پر ہیں۔
 (۳) اباحت جیسے "جَالِسُ الْحَسَنِ أَوْ ابْنِ سَيْرِينَ" حسن کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس۔
 (۴) تیز جیسے "سَيِّزًا كَيْتًا أَوْ مَاشِيًا" سوار چلو یا پیدل چلو۔
 (۵) تقسیم جیسے الْكَلِمَةُ اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ (کلمہ یا اسم ہے یا فعل یا حرف) کبھی الٰہی کے معنی میں آتا ہے جیسے "لَا تَزِمَنَّكَ أَوْ تَقْبِيْنِي حَقِّي" میں تمہارے ساتھ لازم رہوں گا میرا تک کہ تم میرا حق پورا کر دو اور کبھی الٰہ کے معنی میں آتا ہے جیسے "لَا تَقْتُلَنَّ الْعَدُوَّ أَوْ يَخْضَعُ" میں دشمن کو یقیناً قتل کروں گا مگر یہ کہ وہ تابع ہو جائے۔
 آب (ن) اوبابو مآب۔ من السفر: لوٹنا۔ واپس ہونا۔ صفت (آب) ج اوب و ائیاب و اواب۔ الماء: رات میں کسی چشمہ پر اترنا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کا غائب ہونا۔ غروب ہونا۔ اَلِي اللّٰهُ: توبہ کرنا۔
 اَبَةٌ (ن) اوتنا: قصد کرنا۔ اَبٌ اِلَيْهِ: کسی کے پاس رات کے وقت جانا۔
 اَوْبٌ (س) اوتنا۔ غضبناک ہونا۔
 اَوْبٌ وَايْبٌ: عتقہ: لوٹنا۔ اَوْبٌ اَلِ اَوْنِيمٍ: بیچ میں سے گول کاٹنا۔
 اَوْبٌ وَاوْبٌ مُّوَاوِنَةٌ: القَوْمُ: سارے دن چلانا اور رات میں قیام کرنا۔
 قَاوْبٌ وَايْبٌ وَايْتَابٌ: لوٹنا۔ اَوْبٌ اَلِ الْمَاءِ: رات میں کسی چشمہ پر اترنا۔
 الْاَوْبُ وَالْاَوْنَةُ وَالْاِيَابُ: واپس و اواب:

قصد۔ عادت۔ راستہ۔ جت۔ کہا جاتا ہے "جاءوا من كل اوب" وہ لوگ ہر جت سے آئے۔
 "وَكُنْتُ عَلَى صُؤْبِ فَلَانٍ وَاوْبِهِ" میں فلاں کی روش اور طریقے پر تھا۔ الاونبة: جانور کی ٹانگ۔
 ج اَوْبَات۔
 الْاَوْبَابُ: توبہ کرنے والا۔ ج اَوْبَانُ۔
 الْمَاْبُ: لوٹنے کی جگہ۔ ج مآوب۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ مَآوِبٍ" ان دونوں کے درمیان تین منزل کا فاصلہ ہے۔
 الْاَوْبَةُ: وہ پانی جس کو دوسرے کے وقت نکلیں۔
 الْاَوْبُجُ: بلندی۔ فن موسیقی کا ایک نثر۔
 الْاَوْحُ: انزل کی سفیدی۔
 اَذَةٌ (ن) اودا و اؤودا۔ الْاَمْرُ: گراہا کرنا۔
 تَهَكَرَ دَنَا: الْحَمَلُ: بوجھل کرنا صفت (اَلَيْد) اور صفت مفعولی (هَوْد)۔ (اَوْدًا) الْفَيْ: لوٹنا۔ الْعَشِي: باطل ہونا۔ (اَوْدًا وَاوْدًا) الْعَوْدُ: جھکانا۔ ٹیڑھا کرنا۔
 اَوْدَسُ (اَوْدًا وَاوْدًا) ٹیڑھا ہونا۔ مڑنا۔ صفت (اَوْد) مَوْنَسُ (اَوْدَاء) وَاوْدَةٌ الْاَمْرُ: شاق گزرتا۔ مگراں ہونا۔
 اِنَادِ الْبِنَادَا: مڑنا۔ جھکانا۔ ٹیڑھا ہونا۔
 الْاَوْدُ: مشقت۔ ٹیڑھا پن۔
 الْاَوْدَةُ: بوجھ۔
 الْمَاوِدُ: مصیبتیں۔
 الْاَوْرَارُ: گری۔ پیاس۔ دھواں۔ ج اَوْرُ۔
 الْاَوْرَةُ: جولا۔ آگ جلانے کی جگہ۔
 الْاَوْرَةُ: بط۔ مرغابی۔ ج اَوْرُ۔
 الْمَاوْرَةُ: وہ جگہ جہاں طین زیادہ ہوں۔
 اَسْ يُوْرُسُ اَوْ سَاوِ اِنَاْسَا: دینا۔ بدل دینا۔
 اِسْتَاْسَه: عطیہ مانگنا۔ مدد طلب کرنا۔ ساتھ رہنے کو کمانا۔
 الْاَوْسُ: عطیہ۔ بھیڑیا۔
 الْاَسُ: ایک درخت کا نام ہے جو رحمان کے نام سے مشہور ہے۔ واحد اَسَةٌ ہے۔
 الْاَسُ: جو لے کی بقیہ رکھ۔ شمد۔ چھتہ میں باقی ماندہ شمد۔ قبر۔
 اَوْنِسُ: بھیڑیا۔
 اَفَةٌ (ن) اَوْفًا: نقصان پہنچانا۔ فاسد کرنا۔ آفت

اَوْفًا وَاَفَةً وَاَوْفًا) الْيَلَاذُ: آفت زدہ ہونا۔
 الْاَفَةُ: آفت۔ مصیبت۔ ہر وہ عارضہ جو کسی چیز کو فاسد کر دے۔ ج اَفَات۔
 اَق (ن) اَوْفًا: عَلَيْهِ: اُوپر سے جھانکنا۔ جھلکانا۔
 جھلانے مصیبت کرنا۔ نحوست لانا۔
 اَوْقُ: کسی پر مشقت ڈالنا۔ کھانا کم کرنا۔
 قَاوُقُ: برکانا۔
 الْاَوْقُ: بوجھ۔ نحوست۔ بدبختی۔ کہا جاتا ہے "اَلْقِي عَلَيَّ اَوْقَةً" اس نے اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دیا۔ "وَيَه اَوْقُ" وہ نحوست ہے۔
 الْاَوْقَةُ: جماعت۔ اس سے ہے "جاء القوم باؤقيتهم" قوم پوری کی پوری آئی۔
 الْاَوْقَةُ: گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے ج اَوْقَات وَاَوْقُ۔
 الْاَوْقِيَه: نصف رطل کا چھٹا حصہ۔ ج اَوْاقٍ وَاَوْاقِي: الْاَوْاقِي: اَوْاقِي: ڈھری۔
 الْمَوْدِقُ: نحوست۔ الْمَوْدِقُ: کھانے میں دیر کرنے والا۔
 الْاَوْقِيَانُوسُ: بحر اٹلانک۔ بحر حید۔
 الْاَوْقِيَةُ: غصہ۔ بدی۔
 الْاَوْقِيْنِيْنُ: آسپین۔
 الْاَلُ: سراب۔ یا وہ سرابی کیفیت جو چلچلاتی دھوپ میں زوال سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ اَلُ الرُّجُلُ: اہل و عیال۔ اس کا استعمال صرف اشراف ہی میں ہوتا ہے خواہ شرافت دینی ہو یا دنیوی جیسے اَلُ النَّبِيِّ وَاَلُ فِرْعَوْنَ" اور اَلُ الْحِجَامِ وَاَلُ الْاِسْكَافِ: نہیں کہا جاتا۔
 اَلُ الْجَبَلُ: پہاڑ کے اطراف۔
 الْاَلَةُ: اوزار۔ ج اَل وَاَلَات۔ الْاَلَةُ الْخَدْبَاءُ: تابوت۔ الْاَلَةُ الْخِيَاظَةُ: سینے کی مشین۔ الْاَلَةُ الْكِنَايَةُ: ٹاپ راکٹر الْاَلَةُ: حالت شدت۔ چوب خیمہ۔
 الْاَلَاتِي: سازندہ۔ اوزار کے کارخانہ کا منتظم۔
 الْاَوَّلُ: پہلا۔ ج اَوَائِل وَاَوَالٍ وَاَوَّلُونَ مَوْنَسُ اُولِي۔ ج اَوَّل وَاُولِيَات۔ اَوَّلُ جب صفت واضح ہوتا ہے تو غیر مصرف ہوتا ہے جیسے "لَقَيْشَةُ عَامًا اَوَّلًا" اور اس کے ماسوا صورتوں میں مصرف ہوتا ہے۔ جیسے مَارَ اَيْتُ لَهٗ وَاَوَّلًا

میں لگایا جاتا ہے جس سے مقصد تخصیص پیدا کرتا ہوتا ہے جیسے "أَيْكَ أَغْنِي" آیا۔ بعید کے لیے حرف نداء ہے اور کبھی ہمزہ کوہ سے بدل کر ہٹا ہوتے ہیں۔

أَذْيَبُذْ أَيْدَاؤُاَذًا۔ مضبوط و سخت ہونا۔

أَيْدُهُ تَأْيِيذُهُ أَوْ أَيْدُهُ مُؤَيِّدُهُ۔ قوی کرنا۔ طاہت کرنا۔ صفت (مؤَيِّدُو مُؤَيِّد) صفت مضبوط مؤَيِّد و مؤَيِّد (تَأْيِيذًا)۔ قوی ہونا۔

الْأَيْدُ: قوت۔

الْإِيَادُ: ہر وہ چیز جو کسی چیز کے لیے باعث تقویت ہو۔ پرہ۔ پناہ۔ نفضاء آسمانی۔ مضبوط پہاڑ۔

إِيَادُ الْجَيْشِ: فوج کا دایاں و دایاں بازو۔

الْأَيْدُ: قوی۔

المؤَيِّدُ: بڑا معلم۔ مصیبت۔ ح ماوِذُ

مؤَيِّد۔

كَمْ أَيَّارَ نَاهِ كَمْ (روی میں سے کلام)

أَيْسُ (س) أَيَّاسًا۔ جنت: تا امید ہونا۔ صفت (آنس)

أَيْسُهُ وَأَيْسُهُ أَيَّاسًا: تا امید کرنا۔

الْأَيْسَةُ: بچاس یا اس سے زائد عمر والی عورت۔

أَصْحَبُ بَيْتِيضُ أَيَّضًا۔ کما جاتا ہے۔ "فَعَلَهُ أَيَّضًا" اس نے اس کو بھی کیا۔ ایضاً پر نصب

مستدرت یا حایت کی بنا پر ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت پر ہونا۔ کما جاتا ہے "أَصْحَبُ سَوَادِ شَعْرِهِ بِيَّاضًا" اس کے بالوں کی سیاہی سفیدی سے بدل گئی۔

الْأَيْفُونَةُ: مجسمہ، شیچو۔ اس کے مقابل میں عربی لفظ التَضْمَةُ ہے۔

أَيْكُ (س) أَيْكَاؤُا مَسْتَأْيِكُ الشَّجَرُ: گنجان ہونا۔

الْأَيْكُ: گنجان درخت و واحد (أَيْكَةُ)

الْأَيْكُ: بچل دار۔

إَيْلُ: عبرانی میں اللہ تعالیٰ کا نام۔ معنی قوی۔

تدیر۔

الْأَيْلُ وَالْأَيْلُ وَالْأَيْلُ: بارہ سنگھار آیتا۔

أَيْلُولُ: تاہ (روی میں سے کلام)

أَمْ يَسْتَمُ أَيْمَةً وَأَيْوَمَا وَأَيْمًا وَالزُّجْلُ مِنْ

الأوان: کچھوے (اس کے لیے واحد نہیں) آہ (ن) أَوْهَا وَأَوْهَةٌ وَأَوْهَةٌ: درمند ہونا۔ آہ آہ کرتا۔

الأَوْهَاءُ: بخت آپس کرنے والا۔

الأَهَةُ: آہ۔ کراہ۔ کھسو۔

أَوْى (ض) أَوْبًا وَأَوَاءَ النَّبِيَّتِ وَالنَّبِيَّتِ: ٹھکانا لینا۔ پناہ دینا۔ اترنا۔ (و آوَى وَ أَوْى) هُ النَّبِيَّتِ وَالنَّبِيَّتِ: ٹھکانا لینا۔ پناہ دینا۔ اترنا۔

أَوْى (ض) أَوْيَةً وَأَيْتَةً وَمَاوِيَةً وَمَاوِيَةً: لہ: رحم کھانا۔ نرم دل ہونا۔ ترس کھانا۔

تَأَوَّى وَتَأَوَّى: الظُّيُورُ: اکٹھا ہونا۔

التَّوَوَّى وَالتَّوَوَّى: پناہ لینا۔ لہ: ترس کھانا۔

المَاوِي وَالْمَاوَاةُ: ٹھکانا۔ جائے پناہ۔

إِبْنُ أَوْى: گیدڑ۔ بعض اس کی کنیت أَبُو زُهْرَةَ

کہتے ہیں۔ ح نبات أَوْى۔

الْأَيْتَةُ: علامت۔ من الكتاب: آیت

الْأَيْتَةُ: عبرت۔ آئی و آیتا۔

آيَةُ الزُّجْلِ: وجود۔ کما جاتا ہے "مَخْرَجُ الْقَوْمِ بِأَيْتِهِمْ" قوم پوری جماعت کے ساتھ نکلے۔

آئی۔ حرف نداء ہے جیسے "أَمْ يَزِيدُ" حرف تفسیر جیسے "وَأَيْتُ غَضَبُفَرٍ أَيْتُ أَسَدًا" ای: ہاں۔ ہمیشہ قسم سے پہلے واقع ہوتا ہے جیسے "إِنِّي وَاللَّهِ" آئی: اس کے مختلف مواقع استعمال ہیں۔

(۱) شرط کے لیے اس صورت میں دو فعلوں کو جُزوم کرتا ہے۔ جیسے "أَيَّاتُضْرِبُ أَضْرِبُ" جس کو تو مارے گا میں ماروں گا۔

(۲) استقمام کے لیے جیسے "أَيُّكُمْ أُنْتِي" تم میں سے کون آیا؟

(۳) اسم موصول جیسے "سَلِمَ عَلَيَّ أَيُّهُمْ أَفْضَلُ" ان میں سے جو افضل ہے اس کو سلام کر۔

(۴) کمال کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس صورت میں کمرہ کی صفت واقع ہوتا ہے۔ جیسے "زَيْدٌ زَجَلٌ أَيْ زَجَلٌ" زید بخت کامل آدمی ہے۔ اور کبھی موصوف بالآدم متناوی پر یا کے بعد مخاطب کو متعجب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے يَا أَيُّهَا الزُّجْلُ۔

إِيًا: وہ حرف جو حجازی مضموبہ منصلہ کے شروع

آجوا" اور کما جاتا ہے: لَقِيْتُهُ أَوَّلَ ذِي يَدَيْنِ" یعنی بیچ کو سب سے پہلے میں اس سے ملا۔ اور بولتے ہیں: "أَعْمَلُ كَذَا أَوَّلَ ذِي يَدَيْنِ" یعنی یہ کام میں سب سے پہلے کروں گا۔

آل (ن) أَوْلَا وَمَا لَآلِيَهُ: لوٹنا۔ (أَيْلًا وَأَوْلًا) الرعيّة: انتظام کرنا۔ (أَوْلًا وَإِيَالًا) وَإِيَالَةُ عَلَى الْقَوْمِ: حاکم ہونا۔

أَوْلُهُ: إِلِيَهُ: واپس کرنا (وَقَاوُلُ) الْكَلَامِ: تفسیر کرنا۔ وَتَاوُلُ فِيهِ الْخَيْرُ: وصلاح محسوس کرنا۔

إِنْتَالُ: المان: انتظام کرنا۔

الْمَانُ: بولنے کی جگہ۔ نتیجہ۔ مَانُ الْكَلَامِ: مفار۔

الْأِيَالَةُ: حکومت۔ سیاست۔ صوبہ۔ ح ایالات۔

أَوْلَاءُ وَأَوْلَى: جمع قریب کے لیے اسم اشارہ ہیں مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اور اولاء پرھا تنبیہ داخل ہوتا ہے اور ہولاء کما جاتا ہے اور آخر میں ک خطاب بھی لائن ہوتا ہے۔ کما جاتا ہے أوْلَيْكَ اور أولاء و أولی الذین کے معنی میں بھی مستعمل ہیں۔

أَوْلُو: ذو کی جمع۔ مؤنث أولات۔ اس کی واحد ذات ہے۔ تم کہتے ہو جئانی أولو العلم و أولات الفضل۔

آم (ن) أَوْمًا: سخت یا ساہونا۔ (آم) (ک) أَوْمًا وَأَيَّامًا وَأَيَّامًا وَالنَّحْلُ وَعَلَيْهَا: شہد نکالنے کے لیے چھتہ کے بیچے و حواں کرنا۔

أَوْمَةٌ: بیاسا کرنا۔

الأوام: بیاس۔ دوران سرا (والایام) و حواں۔ ح آئیم۔

آن (ن) أَوْنًا: علی نفسہ: نرمی کرنا۔

أَوْنُ (ن) وَقَاوُنُ: الزُّجْلُ: سنجیدہ و پُر و قار ہونا۔


الأقون: نرمی۔ آرام۔ سکون۔ وقار کے ساتھ چلنا۔

الآن والأوان وقت۔ ح آوئته۔

الآن: ابھی۔

الأيوان: محل۔ ح ایوانات و أوایون۔

<p>”أَيُّنُ يُؤَسِّفُ“ یوسف کہاں ہے؟ اور معنی شرط کو متضمن ہو کر دو فطوں کو جزم دتا ہے خواہ ما اس کے ساتھ لاحق ہو یا نہ ہو جیسے ”أَيُّنُ أَوْ أَيْتَمًا تَقِفُ أَيْلَفُ“ تو جہاں کڑا ہو گا میں کڑا ہوں گا۔ ایلہ: کچھ اور کو۔ یا کرو۔ یا ساؤ۔ آيَا وَايَاءُ وَايَاءُ وَايَاءُ الشَّمْسِ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی رونق کے معنی میں بھی آتا ہے۔ والایاۃ: آفتاب کے گرد گوارا۔</p>	<p>أَنْ يَكُونَ أَيْتَمًا: وقت آتا۔ کہا جاتا ہے ”أَنْ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا“ تمہارے لیے ایسا کرنے کا وقت آگیا۔ الأَيُّنُ: حکلن۔ مانگی۔ الأَنْ وَالْأَوَانَ: سامان و دیکھو۔ أَيَّانُ: اسم شرط ہے۔ دو فطوں کو جزم دتا ہے جیسے ”أَيَّانُ تَضْرِبُ أَضْرَبُ“ جب تم مارو گے میں ماروں گا۔ اسم استغمام جیسے ”أَيَّانُ تَزْجَعُ“ تو کب واپس ہو گا؟ اور معنی کے معنی میں بھی آتا ہے بمعنی کب۔ أَيُّنُ: اسم ظرف ہے بمعنی کہاں — جیسے</p>	<p>زَوْجِيَّوَاوَالْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِيَّهَا: راتڑویوہ ہوتا۔ صفت مذکر و مؤنث (أَيُّم) حج أَيْلِيم وَايَاضِي وَايَعُون وَايَمَات۔ أَيْمَهُ: راتڑویوہ کرتا۔ تَأَيُّمُ: عرصہ تک بے نکاح کے رہنا۔ الأَيُّمُ: ساتپ۔ نرا اثر دہا۔ حج ایوم۔ أَيْمُ اللّٰهِ: اللہ کی قسم۔ الأَمَةُ: عیب و نقص۔ کہا جاتا ہے ”أَلْهَضْرَبُ (هَائِمَةٌ) مَيْتَمَةٌ“ لڑائی عورتوں کو راند کرنے والی اور بچوں کو یتیم بنانے والی ہے۔</p>
---	--	--



ب۔ حروفِ جرمیں سے ہے۔ معانی ذیل کے لیے مشتمل ہے۔

(۱) الْبَصَاقُ: جیسے اَمْسَكَتُ بِالْفَلَامِ میں نے فلام کو پکڑ لیا۔

(۲) اِسْتِعَانَةٌ: جیسے كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ میں نے قلم سے لکھا۔

(۳) مُصَاحِبَةٌ: اِذْهَبْ بِسَلَامٍ سلامتی کے ساتھ جاؤ۔

(۴) مَطْرُوفَةٌ: جیسے مَسَارٍ بِاللَّيْلِ وہ رات میں چلا۔

(۵) بَدَلٌ: جیسے بَاعَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اس نے ایمان کے بدلے کفر لیا۔

(۶) تَعْدِيَةٌ: جیسے ذَهَبْتُ بِهِ إِلَى التَّيْنِتِ میں اس کو گھر تک لے گیا۔

(۷) قَسَمٌ: جیسے بِاللَّهِ اَللّٰهُ كِي قَسَمٌ۔

(۸) مَسْبِيبٌ: "لَقِيْنَتْ بِرَبِّيْذِ الْاَهْوَالِ" میں زید کی وجہ سے خطرات میں پڑ گیا۔

(۹) تَاكِيْدٌ: اور یہ زائد ہوتا ہے اور زیادتی کے مواقع حسب ذیل ہیں۔

كَانَ مَثِيًّا كِي خَبْرٌ جیسے "وَمَا كَانَ مِنْكُمْ كِي" یہ منکر نہیں۔ لیس کی خبر میں جیسے "فَئِسْ زَيْدٌ بِقَاتِمٍ" زید کھڑا نہیں ہے۔ حاشا۔ بلیس کی خبر میں جیسے "مَا لِلَّهِ بِفَاعِلٍ" اللہ غافل نہیں ہے۔

اور افعال میں تَجِبُ کے فاعل پر جیسے "اَكْرِمُ بِهِ أَحْسِنُ بِهِ" اور فِعْلٌ وَعَيْنٌ کے تائید لانے میں جیسے "جَاءَهُ الْوَيْلُ بِرَبِّهِمْ" وزیر خود آیا۔

اور كَفَى کے فاعل پر جیسے "كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا" اور مفعول پر جبکہ اس کا تدریہ ایک مفعول کی طرف ہو جیسے "كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثَ"

بِكَلِّ مَا سَمِعَ" اور مبتدا پر سماعی حیثیت سے جیسے "بِحَسْبِكَ دِزْهَمٌ" بجائے "حَسْبُكَ دِزْهَمٌ" کے۔

اور اِذَا فِائِيَةِ کے بعد قیاسی حیثیت سے جیسے "عَوَّجْتُ لَمَّا ذَابَ رَيْدِي فِي الظَّرْفِ نِقِي" اور اس حال پر جس کا عامل مثنیٰ ہو جیسے "فَمَا رَجَعْتُ بِخَاتِيْبَةٍ رِكَابًا"۔

اور کبھی عن وَعَلَى وَالْمِي کے معنی میں آتا ہے۔ التَّبَا: یُوبِ جِ بَاتِهَاتٍ نسبت کے لیے (بابوی)

بَاتِيَةٌ وَيَوْمٌ: کسی سے باہمی و انت و امی کہنا۔ الْوَلَدُ: بَابَا کہنا۔

التَّبُوْتُ: اصل درمیانی حصہ۔ آنکھ کی پتلی۔ عالم۔ خوش طرح سردار۔

تَابِلٌ: فرات کے کنارے کا وہ مشہور شہر جو کلدانیوں کا دارالسلطنت تھا۔ جس کو نمرود نے بسایا تھا۔

التَّبَالِيَةُ: جادوگر۔ شراب۔ زہر۔ التَّبَاوُجُ وَالتَّبَاوُضُ: جوتہ کی ایک قسم۔ جِ نُوَابِيحٌ

التَّبَاوُرُ: اِسْتِمْرَ اس کی عربی باخوہ ہے۔ التَّبَاوُتِيحُ وَالتَّبَاوُجُ: بابونہ۔

بَآجٌ (ف) بَآجَا وَبَآجٌ: چلانا۔ التَّاجُ وَالتَّاجُ: تاج۔ شکل۔ کہا جاتا ہے۔

"اَلْقَاسُ تَآجٌ وَاحِدٌ" لوگ ایک روش' طریقہ پر ہیں۔ وَالتَّاجُ: ٹیکس جو بیگز بکری کے مالک سے لیا جائے۔

التَّبَاذِهُرُ: زہر بار (ایک بیماری کا نام) التَّبَاخِلُ: نسیلی اور گردن کے درمیان کا فاصلہ

التَّبَادُلَةُ: بھل اور پستان کے درمیان کا گوشت۔

التَّبَاذِجَانُ وَالتَّبَاذِجَانُ: بیگن۔

بَآزٌ (ف) بَآزَا وَابْتِآزًا: کھودنا۔ الشَّقُ: چھپانا۔ زخروہ کرنا۔ النَّخِيْرُ: پوشیدہ طور پر کرنا۔

اَبَآزَةٌ: کسی کے لیے کنواں بنانا۔

الْبِيْزَةُ: کنواں۔ جِ اَبَآزُو وَابَآزُو وَابَآزُو (کلمہ مؤنث ہے)

الْبِآآرُ: کنواں کھودنے والا۔

الْبِيْزُوْرَةُ: گڑھا۔ آتشان۔ زخروہ۔

الْبِيْزُوْرَةُ وَالتَّبِيْزُوْرَةُ: زخروہ۔

التَّبَاوْرَةُ: قرش کا چالیسواں حصہ۔ جِ بَارَاتُ

التَّبَارِ تَاغِيْجٌ وَالتَّبِيْرُ تَاغِيْجٌ: بجٹ۔ فہرست۔ حدیث کے راویوں اور اسناد کتب کی فہرست۔

التَّبَاوُودُ: بارود۔

التَّبَاوُودَةُ: بندوق۔ جِ تَبَوَارِيْدٌ

التَّبَاوُ: جِ بِنَزَانٌ وَبُؤُوْزٌ وَابُؤُوْزٌ وَالتَّبَاوُو (التَّبَاوُو) جِ ابُؤُوْزٌ وَابُؤُوْزٌ وَبِؤُوْزَانٌ وَبِؤُوْزَةٌ: باز۔

التَّبَاوُذَارُ: بازوغیرہ شکاری پرندہ رکھنے والا۔ جِ بِيْزَادِرَةٌ

التَّبَاوَارُ: بازار۔

التَّبَاوُرُكَانُ: سوداگر۔

التَّبَاوُزُ: دیکھئے سہاذھر۔

بُؤُوْسٌ (ک) بَابَسَا: مضبوط و ہمار ہونا۔ صفت (بیس و بیئیس)

بِيْئِسٌ (س) بِيْئِسَا وَبِيْئِسَا وَبِيْئِسَا وَبِيْئِسَا: سخت حاجت مند ہونا۔ صفت۔ (ہائیس) جِ بِيْئِسٌ۔

بِيْئِسٌ: فعل ماضی جاہد ہے۔ خدمت کے لیے مستعمل ہے اور بِيْئِسَ الْوَجْهَ ل سے بنا ہے۔

اَبَآسٌ: مصیبتیں پڑنا۔ بِيْئِسٌ: مصیبتوں اور سختیوں میں مبتلا کرنا۔

<p>آئے۔ البتغ والبتغ۔ شراب۔ شہد یا عصارہ۔ کھجور کی تیز نمیز۔ البتغ۔ سرد راز قامت۔ بَتَّكَ (ن ض) بَتَّكَ وَبَتَّكَ كَانَا۔ بَتَّكَ وَبَتَّكَ كَانَا۔ البتكة۔ گلزار۔ ج بَتَّكَ۔ الباتك والبَتَّوْكَ: کاٹنے والا۔ گلوار۔ بَتَّلَ (ن ض) بَتَّلَا وَبَتَّلَ الشَّقَّ: کٹ کر جدا کرنا۔ بَتَّلَ وَبَتَّلَ: دنیا سے بے تعلق ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ شادی نہ کرنا۔ ابَتَّلَ: کٹنا۔ عَطَاءُ (بَتَّلَ): بے مثل عطیہ۔ آخری عطیہ۔ البتولُ: غیر شادی شدہ عورت جو شادی کی طرف رغبت نہ کرے۔ لقب حضرت مریم و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ البتولة والبَتُولِيَّةُ: تجرؤی حالت۔ البتيلُ: دُنیا سے بے تعلق۔ وادی کے چٹلے حصے کی ٹالی۔ خصوصاً بَتِيلُ: پہلی کمرج بَتَّلَ۔ البَتِيلَةُ: بمعنی بتول (و البتلاء) کھجور کا چھوٹا پودہ جو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگایا گیا ہو۔ البَتِيلُ: وہ کھجور جس کی شاخیں کٹ کر دوسری جگہ لگی گئی ہوں۔ بَتَّ (ن ض) بَتَّ وَبَتَّ الشَّجَرُ: خراب چھیلانا۔ الشَّقَّ: بکیرنا۔ الغَبَا: غبار اڑانا۔ بَتَّ وَبَاتَّ وَبَتَّ: فَلَانَا الْغَبَا: آگاہ کرنا۔ بتانا۔ تَبَاتَّ القَوْمُ الْأَمْوَالُ: ایک دوسرے کو راز بتانا۔ ابَتَّ: پھیلانا۔ متفرق ہونا۔ غبار وغیرہ کا اڑنا۔ ابَتَّ الشَّقَّ: الغَبَا: کسی سے خبر پوچھنا۔ البَتَّ: ہر اندک حال۔ سخت نم۔ بَتَّ الشَّقَّ: بھیلانا۔ الغَبَا: اڑانا۔ بَتَّ (ض) وَبَتَّ (س) وَبَتَّ (ك) وَبَتَّ وَبَتَّ وَبَتَّ وَبَتَّ وَبَتَّ: چہرے پر پھینسیں لگانا۔ صفت (بَتَّ وَبَتَّ)۔ البَتَّ: نہ بغیر کھورے ہوئے نکلنے والا پانی۔</p>	<p>البَتَّ: طریقہ۔ البترو والبتر: شیر بہن بٹور۔ البتغَاءُ وَالبَتَّغَاءُ وَالبَتَّغَاءُ: طوطا۔ ج بَتَّغَاوَاتِ بَتَّ (ف) بَتَّغَاءُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ بَتَّ (ن ض) بَتَّ وَبَتَّ ابْتِغَاءًا: کٹنا۔ الْأَمْوَالُ: ناز کرنا۔ التَّبِيَّةُ: پختہ ارادہ کرنا۔ الرَّوْجُلُ: شہقت میں ڈالنا۔ بَتَّغَاءُ: گلے گلے کرنا۔ توشہ دینا۔ الوَعْدُ: پختہ وعدہ کرنا۔ بَتَّغَاءُ: گلے گلے کرنا۔ توشہ لینا۔ ابَتَّ: کٹ جانا۔ البَتَّ: کاٹنے والا۔ و بَلَا بَتَّغَاءُ: لازمی بیع البَتَّ: مونگا پڑا۔ ج بَتَّوْتُ۔ البَتَّاتُ: توشہ۔ سامان۔ گریلو سامان۔ ج ابَتَّه۔ کہا جاتا ہے۔ هُوَ عَلَيَّ بَتَّاتٍ أَمْرٍ "وہ کام کے قریب جا لگا۔ البَتَّةُ: بَتَّ کا اسم مرہ۔ البَتَّةُ وَبَتَّةٌ وَبَتَّاتٌ: بقیعہ۔ کہا جاتا ہے "لَا أَعْلَمُ الْبَتَّةَ" میں اس کو حقیقتاً نہیں کروں گا۔ البَتَّاتُ وَالبَتِّيُّ: مونگا پڑا۔ بٹنے والا یا بیچنے والا۔ البَتِّيَّةُ: لکڑی کا پڑا۔ بیچ بَتَّاتِيَّ۔ البَتِّيُّ: آدنی رومال۔ بَتَّوْفَاءُ (ن) بَتَّوْفَاءُ: کٹنا۔ بَتَّو (س) بَتَّوْا وَابْتَتَّوْا: کٹ جانا۔ ابَتَّوْهُ: اللہ: بے اولاد کر دینا۔ البَتَّوْرُ وَالبَتَّارُ وَالبَتَّارُ: شمشیر ہراں۔ ج بَتَّوْرٍ۔ ابَتَّوْرًا: کٹا ہوا۔ ذم کٹا۔ مِنَ الْحَيَاتِ: چھوٹا یا زہریلا سانپ۔ لا ولد۔ الأَبْتَرَانُ: غلام و جنگلی گدھا۔ مَوْتٌ بَتَّوْرًا: وَالبَتَّوْرَاءُ مِنَ الخُطْبِ: وہ خطبہ جو حرامی سے خالی ہو۔ بَتَّعَ (س) بَتَّعًا: مضبوط گردن یا مضبوط جوڑوں والا ہونا۔ صفت (ابَتَّعَ) مَوْتٌ بَتَّعًا: ج بَتَّعَ بَتَّعَ (ن) بَتَّوْعًا: مَفَّ: بیچے رہ جانا۔ کہا جاتا ہے "بَتَّعَ لِي الْأَرْضُ" وہ ڈور تک چلا گیا۔ بَتَّعَ (ض) بَتَّعًا: التَّبِيَّةُ: شراب بتانا۔ الابَتَّعُ: بَرگوشٹ، گھٹا ہوا۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ زَا كَلْهُمُ ابْتَتَّعُونَ" وہ سب کے سب</p>	<p>بتتاء س۔ بکلف مفل۔ بتنا۔ ابْتَتَّسَ: ناپسند کرنا۔ عملکن ہونا۔ اور اسی سے ہے "لَا تَبْتَتِّسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر تم نہ کیجیے۔ البَتَّاسُ: ہمداری۔ توت۔ خوف۔ عذاب۔ لا بَتَّاسٌ بِهِ: اس پر کوئی اعتراض نہیں لایا بَتَّاسٌ عَلَيْهِ: ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں۔ لا بَتَّاسٌ أَنْ فِيهِ: اس میں کوئی حرج نہیں۔ لا بَتَّاسٌ أَنْ تَقْرَؤُوا: ہمارے جاننے میں کوئی دشواری نہیں۔ البَتَّاسُ: ج ابْتَّاسٌ وَ (البِتَّاسَاءُ وَ البَتَّاسِيَّةُ) شہرت و محتاجی و البِتَّاسَاءُ: لڑائی۔ بھوک۔ بَتَّاتٌ بَتَّاسٌ: مصیبتیں۔ بَتَّاسٌ وَبَتَّاسٌ الْعَذَابُ: سخت عذاب۔ البِتَّاسِيَّةُ: کبھی کے قریب ایک رگ کا نام۔ بَتَّاسٌ: رزمیں۔ باش کاتب۔ ہیڈ کلرک۔ البِتَّاسَاءُ: پاشا کا محرب۔ جو ایک معزز لقب ہے جس کو سلطان ترکی مخصوص مراتب کے لحاظ سے دیا کرتا تھا۔ ج باسادات و بَتَّاسَاتُ۔ البِتَّاسِقُ: ایک شکاری پرندہ۔ بَتَّاسَطٌ: لیٹنا۔ فارغ البال ہونا۔ مطمئن ہونا۔ عَنَّةٌ: امراض کرنا۔ بَتَّاقَةُ (ن) بَتَّوْقًا وَ ابْتِاقُ: عَلَيْهِ الوَيْلُ: اچانک آنا۔ البَتَّاقَةُ: جلد سے۔ بَتَّوْلٌ (ك) بَتَّوْلَةٌ وَبَالَةٌ: کمزور اور ذلیل ہونا۔ صفت (بَتَّوْلٌ)۔ البَتَّالُ: وکیل۔ جملی۔ البَتَّالَةُ: عِنْدَ النَّجَّارِ: کپڑوں کا بٹل۔ اس کی فصیح عربی امثالہ ہے۔ البَتَّالُ: ناچ گھر۔ اس کی فصیح عربی مر قص ہے (جدید)۔ البَتَّالُونَ: غبارہ۔ اس کی فصیح عربی منتظاد ہے۔ (جدید)۔ البَتَّالِيَّةُ: بھڑی ترکاری۔ (جدید)۔ بَاءَةٌ (ف) بَأَهَا: سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "هَبَّابَةٌ لِلْأَمْوَالِ أَوْ بِالْأَمْوَالِ" اس نے معاملہ کو نہیں سمجھا۔ بَأَتَى (ف) بَأَوَا عَلَيْهِمْ: فخر کرنا۔ تکبر کرنا۔</p>
---	---	---

حاصد۔

الْبَحْرُ: جنسی واحد (بقرہ) بحر بنور۔

الْبَحْرُ: بنت۔ کہا جاتا ہے "کثیر بنور"

الْبَحْرُ: بنت المدار۔ وہ شخص جس پر حسد کیا جائے۔

يَبْحَثُ (س) يَبْحَثُ: الشَّقَّةُ خَاصَّةً: کثرت خون سے سرخ ہوتا۔

الْبَيْحُ: وہ شخص جس کے ہونٹ کثرت خون سے سرخ ہو گئے ہوں۔ مؤنث يَبْحَثُ عَنِ الْبَيْحِ۔

بَيْحُ (ن) بَيْحًا وَبَيْحًا وَبَيْحًا وَبَيْحًا: الشَّيْءُ الْمَوْضِعُ: سیلاب کا جگہ کو پھاڑ دینا۔ بَيْحُ الْبَيْحِ: پانی اچھی طرح بننے کے لیے دریا کے بند کو توڑ دینا۔

الْبَيْحُ: الْمَاءُ: بہہ پڑنا۔ بِالْكَوَالِمِ: تیز بولنا۔

الْبَيْحُ وَالْبَيْحُ: دریا کے کنارے کی ٹوٹی ہوئی جگہ بحر بنور۔

بَيْحُ (ن) بَيْحًا: پھاڑنا۔ نیزہ مارنا۔ بَيْحُ الْكَلَاءِ: الثَّاقَةُ: موٹا کرنا۔

الْبَيْحُ: پھلنا۔

الْبَيْحُ: كِشَارَةُ الْوَالِدِ: مؤنث بَيْحَاءُ۔

کہا جاتا ہے "عزیز بَيْحَاءُ" کشارہ آگہ۔

الْبَيْحَةُ: جنسی جو آگہ میں نکلتی ہے۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

باہر کو نکلی ہوئی نالی والا ہوتا۔ بڑے ہیٹ والا ہوتا۔

دودھ اور پانی سے ہیٹ بھرنے کے باوجود میراب نہ ہوتا۔ صفت (بحر و آبجو)

تَبْحَرُ: التَّبِيدُ: پینے میں زیادتی کرنا۔

الْبَاحِرُ: فاعل۔ پھولے ہوئے ہیٹ والا بحر بنور۔

الْبَاحِرَةُ: نالہ۔ چہرہ۔ عیب بحر۔ کہا جاتا ہے "ذکر عَجْرَةَ وَبَاحِرَةَ" اس نے اس کے محبوب ظاہری و باطنی سب بیان کر دیئے۔

الْبَاحِرُ: بحر اباجو و اباجیر و البجری بحر بجاری۔ بڑائی۔ مصیبت۔ بڑا معاملہ۔ کہا جاتا ہے "الْقَيْثُ وَبَاحِرَةُ الْبَجَارِيِّ" اس سے مجھے مصیبتیں حاصل ہوئیں۔

الْبَاحِرَةُ: سخت اور بلند زمین۔ زمین جس میں گھاس نہ آگے۔

الْبَاحِرَةُ: مصیبتیں۔

بَيْحَسُ (ن) بَيْحَسًا وَبَيْحَسًا: الْمَاءُ: پانی جاری کرنا۔ الْبَيْحَسُ: زخم چرنا۔

بَيْحَسُ: بَيْحَسًا: بھلا کرنا۔

بَيْحَسُ: بَيْحَسًا: بھلا کرنا۔

بَيْحَسُ: بَيْحَسًا: بھلا کرنا۔

بَيْحَسُ: بَيْحَسًا: بھلا کرنا۔

بَيْحَسُ: بَيْحَسًا: بھلا کرنا۔

بَيْحَسُ: بَيْحَسًا: بھلا کرنا۔

بَيْحَسُ: بَيْحَسًا: بھلا کرنا۔

بَيْحَسُ: بَيْحَسًا: بھلا کرنا۔

بَيْحَسُ: بَيْحَسًا: بھلا کرنا۔

بَيْحَسُ: بَيْحَسًا: بھلا کرنا۔

بَيْحَسُ: بَيْحَسًا: بھلا کرنا۔

الْبَيْحِيلُ: وسیع و فراخ۔

الْبَيْحِيلُ: ہاتھ یا پاؤں کی ایک موٹی رگ کا نام۔ بحر۔ اباجیل۔

بَيْحَمُ (ض) بَيْحَمًا وَبَيْحَمًا: گہرا ہٹ یا عاجزی سے خاموش ہوجانا۔

بَيْحَمُ: بمعنی مجرد ویر کرنا۔ تیز نظر ڈالنا۔ متنبہ ہونا۔

الْبَيْحَمُ: جہاد کا پھل۔ واحد بَيْحَمَةٌ۔

الْبَيْحَمُ: بڑی جماعت۔

بَيْحُ (س) بَيْحًا وَبَيْحًا وَبَيْحًا وَبَيْحًا: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

بَيْحُ: بے چارگی کی حالت۔ بے چارگی کی حالت۔

خوہی کرنا۔ الوَیجَةُ: کوئی پانی نکلنے تک
 کھودنا۔ فَلَا تَأْكُلْ عَيْبَةً: تصدیق کرنا۔
 بَيَّعَ (س) بَيْعًا عَارًا بِمَخَاضَةٍ: بالحق: اقرار
 کرنا۔ حق کے سامنے جگ جانا۔
 بَخَعَ (ف) بَخْعًا وَابْخَعَ: عَيْتَهُ: کالی کرنا
 پھوڑنا۔
 زَجَلَ (أَبْخَعَ وَبَخَعَ وَبَخِخَ وَبَخِخَ وَمَبْخُوقٌ)
 کاتھرو۔
 عَيْنٌ (بِخَعَاءٍ وَبِخَعَةً وَبِخَعَةً وَمَبْخُوقَةٌ)
 کالی آنکھ۔
 الْبِخْعَانُ: زبھیرا۔
 بَخِخْتٌ (س) بَخْعًا: عَيْتَهُ: بڑی طرح کالی
 ہوتا۔
 بَعَجَلٌ (س) بَيْعَلًا وَبَيْعَلٌ (ك) بَيْعَلًا: بخیل
 ہوتا۔ تجوس ہوتا۔ صفت بخیل ج بخلاء عَلَيْنِهِ
 وَعَيْتُهُ: کسی سے بخل کرنا۔ صفت با بخل ج
 بَيْعَلٌ۔
 بَيْعَلُهُ: بخل کی جانب منسوب کرنا۔
 أَبْخَعَلَهُ: بخیل بنانا۔
 الْبَيْعَالُ وَالْبَيْعَالُ وَالْمَبْخُوعُ وَالْبَيْعَلُ:
 بنت تجوس۔
 الْمَبْخُوعَةُ: باحث بخل۔ اور اسی سے ہے
 "الْوَلْدُ مَبْخُوعَةٌ مَبْخُوعَةٌ" لڑکا باحث بخل اور
 باحث بزدلی ہوتا ہے۔
 الْبَيْعُوقُ: کٹھپ۔ ایک قسم کا زائیدہ سرہند۔
 بَيْعًا (ن) بَيْعًا: غَضَبُهُ: غمنا۔
 بَدَّ (ن) بَدَّ: رَجَلَيْهِ: ناگلیں پھیلاتا۔
 الْوَجَلَ عَنِ الشَّيْءِ: دُور کرنا۔ روکنا۔
 بَدَّ (س) بَدَّدًا: زیادتی گوشت کی وجہ سے
 دونوں رانوں میں فاصلہ ہوتا۔
 بَدَّدَ: الشَّيْءُ: مَفْرُوقٌ کرنا۔ بکھیرنا۔ الرَّجُلُ:
 مَحْلُوقٌ۔
 بَادَتْهَا دَاؤُ بَدَادًا: مابولہ کے طور پر بیچنا۔
 الْقَوْمُ هَلَى السَّفَرِ: ہر ایک کا ہانا ہنا زاد سفر
 لانا اور ہجر مل کر خرچ کرنا۔
 أَبَدَّ: الشَّيْءُ يَبْدُهُمْ: ہر ایک کا حصہ دینا۔
 بَدَّدَ: زمین کی طرف ہاتھ بڑھانا۔
 تَبَدَّدَ: مَفْرُوقٌ ہونا۔ الْقَوْمُ الشَّيْءُ: آپہن

میں حصے تقسیم کرنا۔
 ابْتَدَأَ الرَّجُلَانِ فَلَانَا بِالْعَضْبِ: دو آدمیوں کا
 کسی کوروں جانب سے بارنا۔
 تَبَادَأَ الْقَوْمُ: باہم متبادلہ کے لیے لگانا اور اپنے
 اپنے حریف کو پکڑنا۔ دو دو آدمیوں کا قاصلہ سے
 گذرنا۔
 ابْتَدَأَ بِكَذَا: اپنے آپ کو ترجیح دینا۔
 الْأَمْزُوقَانِ: کسی معاملہ کا بے قابو ہونا۔
 التَّبْدُؤُ التَّبْدِيْدُ: مثل نظیر۔
 التَّبْدُؤُ: چارہ کار۔ ہمانے کی جگہ۔ تم کہتے ہو "لَا تَبْدُؤُ
 مِنْ هَذَا" یہ لازمی ہے۔ بدلہ
 وَالتَّبْدُؤُ التَّبَادُؤُ: حشر۔
 التَّبَادُؤُ: مقابلے کے لیے لگانا۔ ہسر لوگ۔ کہا
 جاتا ہے "لَقَوْا بَدَادَهُمْ" وہ لوگ اپنے حریفوں
 سے لے۔ "وَبَدَادُوا وَبَدَادُوا" یہ اس وقت بولا
 جاتا ہے جب یہ کہتا مقصود ہو کہ ہر شخص اپنے اپنے
 قرین کو پکڑے۔ "وَجَاءَتْ ثَلَاثُ الْعَجَلِ بَدَادًا"
 گھوڑے مفرق مفرق آئے۔
 التَّبْدُؤُ وَالتَّبْدُؤُ: طاقت۔ حاجت۔
 الْأَبْدُؤُ: وہ شخص جس کے ہاتھ رانوں میں فاصلہ
 ہو۔ بڑے جسم والا۔ مَوْنُتٌ بَدَاءُ: کہا جاتا ہے
 "فَعَبَّؤُوا (أَبَادُوا) تَبَادُؤًا" یعنی وہ لوگ مفرق ہو
 گئے۔ وَظَلَمُوا أَبَادُوا تَبَادُؤًا: مفرق پرندے۔
 الْمُسْتَبْدُؤُ: کام شروع کر کے خاتمہ ہی پر دم لینے
 والا۔
 بَدَأَ (ف) بَدَأَ اِبْتَدَأَ وَتَبَدَّأَ: الشَّيْءُ وَبِهِ:
 شروع کرنا۔ پہلے کرنا۔ بَدَأَ بِفُلَانٍ: آگے بڑھانا۔
 بَدَأَ الشَّيْءُ: شروع کرنا۔ پیدا کرنا۔
 بَدَأَ وَابْتَدَأَ: اللہ الخلق پیدا کرنا۔
 صفت (بَدَائِيٌّ وَمَبْدِيٌّ) ابْتَدَأَ الرَّجُلُ: عجیب
 چیز لانا۔ تعجب انگیز کام کرنا اور کہا جاتا ہے۔ "فَلَانٌ
 مَا يَبْدِيئُ وَمَا يَبْدِيئُ" یعنی فلاں کچھ بھی نہیں بولتا۔
 بَدَاءُ: شروع کرنا۔ غصیلت دینا۔
 التَّبْدُؤُ وَالتَّبْدُؤُ وَالتَّبْدُؤُ: التَّبْدُؤُ: شروع۔
 ابتداء۔ کہا جاتا ہے "أَفْعَلُهُ بَدَأُ أَوْ بَدَأُ بَدَأُ وَأَوَّلُ
 بَدَأُ وَبَدَائِيٌّ بَدَأُ وَبَدَأُ أَفْعَلُهُ بَدَأُ" یعنی میں اس کو
 ساری چیزوں سے پہلے کروں گا۔
 وَالتَّبْدُؤُ: کسی جگہ کے لیے سفری ابتداء۔ تم

کہتے ہو "اِخْتَرْتُ الْفَرَسَ لِلْبَدَأِ وَالرَّجُلَ جَعَةً"
 میں نے گھوڑے کو آمد رفت کے لیے کرنا یہ پر
 لیا۔ بَدَوِيٌّ: جمع ابداء و بَدَوِيٌّ۔
 الْمَبْدُؤُ: اصل۔ سبب متبادی۔
 الْمَبْتَدَأُ: پہلا۔ وہ اسم مند الیہ جو عوامل
 لفظیہ سے خالی ہو۔
 بَدَخَ (ف) بَدَخًا: بِالْعَصَاءِ: بلا شئی سے مارنا
 بِالْمِيزِ: ظاہر کرنا۔
 تَبَادَخُوا بِالشَّيْءِ: باہم مل کر پھینکانا۔
 الْبَدْحُ: ج بَدْحٌ وَبَدْحٌ: (الْبَدْحُ) ج
 بَدْحٌ وَالتَّبْدُؤُ: وسیع زمین۔
 بَدَخَ (ف) بَدَخَ: (ك) بَدَخًا: بِدَاخَةٍ:
 عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (بَدِخٌ) ج بَدِخَاءُ:
 تَبْدُؤُ: عَلَيْنِهِ: بڑھانا۔
 بَدَرَ (ن) بَدَرًا: إِلَى الشَّيْءِ: جلدی کرنا
 هَالِي الشَّيْءِ: کسی چیز کے لیے کسی سے
 سبقت کرنا۔
 بَادَرَ مَبَادَرَةً وَبَدَارًا: إِلَى الشَّيْءِ: جلدی کرنا
 الشَّيْءِ: دُفُوعٌ سے پہلے کرنا۔ تَبَادَرُ فُلَانًا
 الشَّيْءُ وَالْيَهُ: کسی چیز کے لیے کسی سے سبقت
 کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔
 تَبَادَرُ: الْقَوْمُ: جلدی کرنا۔
 تَبَادَرُ وَابْتَدَرُ: الْقَوْمُ: آمُرًا: بعض کا بعض
 سے سبقت کرنے کے لیے بڑھنا۔
 أَبَدَرُ: ماہ کامل طلوع ہونا۔ چودھویں رات میں
 چلنا۔
 الْبَدْرُ: ماہ کامل۔ چودھویں رات کا چاند طبق
 ج بَدْرُ۔
 الْبَادِرُ: جلدی کرنے والا۔ سبقت کرنے والا۔
 ج تَوَادِرُ۔
 الْبَدْرِيٌّ: جاڑے سے کچھ پہلے کی بارش۔
 الْبَدْرِيٌّ: مسابقت۔ کہا جاتا ہے۔ "اِسْتَفْتِنَا
 الْبَدْرِيٌّ" ہم نے ایک دوسرے سے سبقت
 لے جانے کے لیے دوڑی۔
 الْبَدْرُ: دس ہزار درہم۔ مِنَ الْفَصَالِ:
 بڑی مایت۔ دس ہزار درہم کی مصلی۔ ج بَدْرُ
 بَدْرُوتے ہیں فَلَانٌ يَهْبُؤُ الْبَدْرُ: فلاں دس
 ہزار کی تحلیاں بہہ کرتا ہے۔

<p>بَدَّه (ف) بَدَّهَ وَبَدَّاهُ الْوَجْهَ: کسی کے پاس اچانک آنا۔ صفت (بادہ) مؤنث (بَادِهَةٌ) ج بَوَّادَةٌ۔</p> <p>تَبَدَّهَوُ: الشُّعْرُ وَالْعُقْلَبُ: باہم بے فکر تامل کے شعر و دھنیا تقرر کرتا۔</p> <p>إِبْتَدَاهُ: الْخُطْبَةَ: بے فکر تامل کے تقریر کرتا۔ صفت (مُبْتَدَاهٌ وَبَدَّاهُ)</p> <p>الْبِدَاهَةُ وَبَدَّاهَةُ: جَمْعٌ كَأَنْفَازٍ: کہا جاتا ہے "لِحَقِّقَةُ فِي بَدَّاهَةُ حَزْبِهِ" دوڑ کے آغاز میں اس سے جاملا۔ اچانک۔</p> <p>بَدَّيْهَا وَعَلَى الْبَدْيِيَّةِ فِي الْبَدْمَةِ: الْبَدْيِيَّةُ: اچانک۔ فوری بے غور فکر کہا جاتا ہے "أَجَابَ عَلَى الْبَدْيِيَّةِ" اس نے بے غور فکر جواب دیا۔ ج بدیائتہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَعْلُومٌ فِي بَدَّيْهِ الْعُقْلُوبِي" یہ بدیسی طور پر معلوم ہے۔ "وَيَقْلَانِ بَدَّيْهِ فِي الْكَلَامِ" یعنی فلاں کی گفتگو بہت عجیب و غریب ہے۔</p> <p>الْبَدْيِيَّةُ: بدیسی۔ (دو چیز جس کے جاننے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔</p> <p>الْمَبْدَهُ: فِي الْبَدْمَةِ بولنے والا۔ اچانک آنے والا۔</p>	<p>بَدَّغَ (ك) بَدَّغَهُ: پاستخانہ میں پاستخانہ کرتا۔ صفت (بَدَّغٌ)</p> <p>بَدَّلَ (ن) بَدَّلَا وَابْدَلَّ الشَّيْءَ: بدلانا۔ بدلہ میں لینا۔</p> <p>بَدَّلَ (س) بَدَّلَا: ہڈیوں یا جوڑوں میں درد والا ہونا۔</p> <p>بَدَّلَ وَأَبْدَلَّ الشَّيْءَ مِنْهُ: بدلہ میں لینا و بَدَّلَ الشَّيْءَ شَيْئًا: آخر۔ بدل دیا۔ کہا جاتا ہے "بَدَّلَ اللَّهُ الْعُقُولَ أَمْثًا" اللہ نے خوف کو اس سے بدل دیا۔</p>	<p>الْمَبْدُورَةُ: بکری کے پینے کی کھال۔</p> <p>الْبَادِيَةُ: تیزی یا تیزی کے وقت کی خفیف الحركتي۔ ج بَوَّادِرٌ: کہا جاتا ہے "بَدَّوْرَتْ مِنْهُ بَوَّادِرُ غَضَبٍ" اس سے غصہ کی حرکتیں صادر ہوئیں۔ الْبَادِيَةُ: تیزی کی ٹوک۔ کہا جاتا ہے "أَضَاهَةُ بَادِيَةُ السَّهْمِ" اس کو تیزی کی ٹوک گئی۔ مؤنث۔ اور گردن کے درمیان کا گوشت۔</p> <p>بَدَّارٌ: اسم فعل بمعنى أسرع یعنی جلدی کر۔ التَّيَسُّرُ: كَلِمَانِ ج بَيَّادِرٌ۔</p>
<p>بَدَّاهَةٌ وَعَلَى الْبَدْيِيَّةِ فِي الْبَدْمَةِ: الْبَدْيِيَّةُ: اچانک۔ فوری بے غور فکر کہا جاتا ہے "أَجَابَ عَلَى الْبَدْيِيَّةِ" اس نے بے غور فکر جواب دیا۔ ج بدیائتہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَعْلُومٌ فِي بَدَّيْهِ الْعُقْلُوبِي" یہ بدیسی طور پر معلوم ہے۔ "وَيَقْلَانِ بَدَّيْهِ فِي الْكَلَامِ" یعنی فلاں کی گفتگو بہت عجیب و غریب ہے۔</p> <p>الْبَدْيِيَّةُ: بدیسی۔ (دو چیز جس کے جاننے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔</p> <p>الْمَبْدَهُ: فِي الْبَدْمَةِ بولنے والا۔ اچانک آنے والا۔</p>	<p>بَادَّةٌ بِكَلْبًا: بدلہ دینا۔</p> <p>تَبَدَّلَا وَتَبَدَّلَا: لَوْ تَبَدَّاهُمَا: ایک دوسرے سے بدل لینا۔ تَبَدَّلَ: بدل جانا۔ حثیر ہونا۔</p> <p>تَبَدَّلَتْ وَاسْتَبَدَّلَتْ: بَكْدًا: بدلہ میں لینا جیسے "تَبَدَّلَتْ الدَّارُ بِالنَّهْضِ وَحَشًا" مکان کی اُنسیت و حث سے بدل گئی۔</p> <p>الْبَدْلُ وَالْبَدْلُ وَالْبَدْلُ: بدلہ۔ جائیں۔ سخی۔ نِاضٌ: شریف۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ بَدَّلَ وَبَدَّلَ" ج اَبْدَالٌ وَبَدَّلَا: جوڑوں یا ہاتھ پیروں یا ہڈیوں کا درد۔ اور اسی سے ہے۔ "زُبُّ بَدَّلٍ شَرٌّ مِنْ بَدَّلٍ" بہت سے عوض ہڈی کے درد سے برے ہیں۔ الْاَبْدَالُ: صاحبین کی وہ جماعت جن سے دنیا کبھی غلطی نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو فوراً دوسرا اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔</p>	<p>بَدَّغَ (ف) بَدَّغَا: بَدَّغَا: بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنانا۔ ابتداء کرنا۔ ایجاد کرنا۔</p> <p>بَدَّغَ (ك) بَدَّغَا وَبَدَّاعَةٌ وَبَدَّوْعَا: بے مثال ہونا۔ انوکھا ہونا۔</p> <p>بَدَّوْعٌ (س) بَدَّوْعَا: مؤنث ہونا۔ صفت (بَدَّوْعِيٌّ)</p> <p>بَدَّعَتْ بِدَعْتِ كِي نَسَبَتْ كَرَا:</p> <p>أَبْدَعُ: كَيْ كَامٌ كُوخْشِ السُّلُوبِي سَ كَرَا: بِدَعْتِ جَمُورٌ نَا) — وَابْتَدَعَ الشَّيْءَ: اِجْمَاعٌ كَرَا — الْوَجْهَ: بِدَعْتِ كَرَا:</p> <p>بَدَّعٌ بِدَعْتِ هُوَا:</p> <p>إِسْتَبْدَعَ الشَّيْءَ: عَجِيبٌ وَتَادِرٌ كَهْمَا:</p> <p>أَلْبَدَّغُ: الْوَكْمَا: تَجَرِبَةٌ كَارِ مَرْدٌ: كَمَا جَاتَا هُوَا</p> <p>فَلَانٌ بَدَّعَ فِي الْأَمْرِ: فَلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَامٌ كُوخْشِي مَرَجِبٌ كِيَا ج بَدَّاعٌ وَبَدَّوْعٌ:</p> <p>أَلْبَدَّعَةُ: بِغَيْرِ نَمُونَةٍ كَيْ بَتَالِي هُوَا جِيَا دِينِ مِش نَبِي رَمٌ وَهُوَ عَقِيدَةٌ يَأْمَلُ جَسَ كِي كُوخْشِي اَصْلُ قُرُونِ مَلَاوٌ مَشْهُورٌ لِمَا بَالِغِ مِش نَدَلِي ج بَدَّعُ:</p>
<p>بَدَّاهَةٌ وَعَلَى الْبَدْيِيَّةِ فِي الْبَدْمَةِ: الْبَدْيِيَّةُ: اچانک۔ فوری بے غور فکر کہا جاتا ہے "أَجَابَ عَلَى الْبَدْيِيَّةِ" اس نے بے غور فکر جواب دیا۔ ج بدیائتہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَعْلُومٌ فِي بَدَّيْهِ الْعُقْلُوبِي" یہ بدیسی طور پر معلوم ہے۔ "وَيَقْلَانِ بَدَّيْهِ فِي الْكَلَامِ" یعنی فلاں کی گفتگو بہت عجیب و غریب ہے۔</p> <p>الْبَدْيِيَّةُ: بدیسی۔ (دو چیز جس کے جاننے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔</p> <p>الْمَبْدَهُ: فِي الْبَدْمَةِ بولنے والا۔ اچانک آنے والا۔</p>	<p>الْبَدِّيَانُ: کمانے پینے کی چیزوں کا بیچنے والا۔ بنیاد۔</p> <p>مَوَامٌ: بَدَّلَ كَيْتِي هُوَا:</p> <p>الْبَادِيَةُ: بَدَّلَ وَبَدَّاهَةُ الْوَجْهَ: کسی کے پاس اچانک آنا۔ صفت (بادہ) مؤنث (بَادِهَةٌ) ج بَوَّادَةٌ۔</p> <p>تَبَدَّهَوُ: الشُّعْرُ وَالْعُقْلَبُ: باہم بے فکر تامل کے شعر و دھنیا تقرر کرتا۔</p> <p>إِبْتَدَاهُ: الْخُطْبَةَ: بے فکر تامل کے تقریر کرتا۔ صفت (مُبْتَدَاهٌ وَبَدَّاهُ)</p> <p>الْبِدَاهَةُ وَبَدَّاهَةُ: جَمْعٌ كَأَنْفَازٍ: کہا جاتا ہے "لِحَقِّقَةُ فِي بَدَّاهَةُ حَزْبِهِ" دوڑ کے آغاز میں اس سے جاملا۔ اچانک۔</p>	<p>بَدَّعَ (ف) بَدَّعَا: بَدَّعَا: بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنانا۔ ابتداء کرنا۔ ایجاد کرنا۔</p> <p>بَدَّعَ (ك) بَدَّعَا وَبَدَّاعَةٌ وَبَدَّوْعَا: بے مثال ہونا۔ انوکھا ہونا۔</p> <p>بَدَّوْعٌ (س) بَدَّوْعَا: مؤنث ہونا۔ صفت (بَدَّوْعِيٌّ)</p> <p>بَدَّعَتْ بِدَعْتِ كِي نَسَبَتْ كَرَا:</p> <p>أَبْدَعُ: كَيْ كَامٌ كُوخْشِ السُّلُوبِي سَ كَرَا: بِدَعْتِ جَمُورٌ نَا) — وَابْتَدَعَ الشَّيْءَ: اِجْمَاعٌ كَرَا — الْوَجْهَ: بِدَعْتِ كَرَا:</p> <p>بَدَّعٌ بِدَعْتِ هُوَا:</p> <p>إِسْتَبْدَعَ الشَّيْءَ: عَجِيبٌ وَتَادِرٌ كَهْمَا:</p> <p>أَلْبَدَّغُ: الْوَكْمَا: تَجَرِبَةٌ كَارِ مَرْدٌ: كَمَا جَاتَا هُوَا</p> <p>فَلَانٌ بَدَّعَ فِي الْأَمْرِ: فَلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَامٌ كُوخْشِي مَرَجِبٌ كِيَا ج بَدَّاعٌ وَبَدَّوْعٌ:</p> <p>أَلْبَدَّعَةُ: بِغَيْرِ نَمُونَةٍ كَيْ بَتَالِي هُوَا جِيَا دِينِ مِش نَبِي رَمٌ وَهُوَ عَقِيدَةٌ يَأْمَلُ جَسَ كِي كُوخْشِي اَصْلُ قُرُونِ مَلَاوٌ مَشْهُورٌ لِمَا بَالِغِ مِش نَدَلِي ج بَدَّعُ:</p> <p>بَدَّعَ (ف) بَدَّعَا: بَدَّعَا: بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنانا۔ ابتداء کرنا۔ ایجاد کرنا۔</p>
<p>بَدَّاهَةٌ وَعَلَى الْبَدْيِيَّةِ فِي الْبَدْمَةِ: الْبَدْيِيَّةُ: اچانک۔ فوری بے غور فکر کہا جاتا ہے "أَجَابَ عَلَى الْبَدْيِيَّةِ" اس نے بے غور فکر جواب دیا۔ ج بدیائتہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَعْلُومٌ فِي بَدَّيْهِ الْعُقْلُوبِي" یہ بدیسی طور پر معلوم ہے۔ "وَيَقْلَانِ بَدَّيْهِ فِي الْكَلَامِ" یعنی فلاں کی گفتگو بہت عجیب و غریب ہے۔</p> <p>الْبَدْيِيَّةُ: بدیسی۔ (دو چیز جس کے جاننے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔</p> <p>الْمَبْدَهُ: فِي الْبَدْمَةِ بولنے والا۔ اچانک آنے والا۔</p>	<p>بَدَّاهَةٌ وَعَلَى الْبَدْيِيَّةِ فِي الْبَدْمَةِ: الْبَدْيِيَّةُ: اچانک۔ فوری بے غور فکر کہا جاتا ہے "أَجَابَ عَلَى الْبَدْيِيَّةِ" اس نے بے غور فکر جواب دیا۔ ج بدیائتہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَعْلُومٌ فِي بَدَّيْهِ الْعُقْلُوبِي" یہ بدیسی طور پر معلوم ہے۔ "وَيَقْلَانِ بَدَّيْهِ فِي الْكَلَامِ" یعنی فلاں کی گفتگو بہت عجیب و غریب ہے۔</p> <p>الْبَدْيِيَّةُ: بدیسی۔ (دو چیز جس کے جاننے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔</p> <p>الْمَبْدَهُ: فِي الْبَدْمَةِ بولنے والا۔ اچانک آنے والا۔</p>	<p>بَدَّعَ (ف) بَدَّعَا: بَدَّعَا: بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنانا۔ ابتداء کرنا۔ ایجاد کرنا۔</p> <p>بَدَّعَ (ك) بَدَّعَا وَبَدَّاعَةٌ وَبَدَّوْعَا: بے مثال ہونا۔ انوکھا ہونا۔</p> <p>بَدَّوْعٌ (س) بَدَّوْعَا: مؤنث ہونا۔ صفت (بَدَّوْعِيٌّ)</p> <p>بَدَّعَتْ بِدَعْتِ كِي نَسَبَتْ كَرَا:</p> <p>أَبْدَعُ: كَيْ كَامٌ كُوخْشِ السُّلُوبِي سَ كَرَا: بِدَعْتِ جَمُورٌ نَا) — وَابْتَدَعَ الشَّيْءَ: اِجْمَاعٌ كَرَا — الْوَجْهَ: بِدَعْتِ كَرَا:</p> <p>بَدَّعٌ بِدَعْتِ هُوَا:</p> <p>إِسْتَبْدَعَ الشَّيْءَ: عَجِيبٌ وَتَادِرٌ كَهْمَا:</p> <p>أَلْبَدَّغُ: الْوَكْمَا: تَجَرِبَةٌ كَارِ مَرْدٌ: كَمَا جَاتَا هُوَا</p> <p>فَلَانٌ بَدَّعَ فِي الْأَمْرِ: فَلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَامٌ كُوخْشِي مَرَجِبٌ كِيَا ج بَدَّاعٌ وَبَدَّوْعٌ:</p> <p>أَلْبَدَّعَةُ: بِغَيْرِ نَمُونَةٍ كَيْ بَتَالِي هُوَا جِيَا دِينِ مِش نَبِي رَمٌ وَهُوَ عَقِيدَةٌ يَأْمَلُ جَسَ كِي كُوخْشِي اَصْلُ قُرُونِ مَلَاوٌ مَشْهُورٌ لِمَا بَالِغِ مِش نَدَلِي ج بَدَّعُ:</p>

<p>بَذَرُ (ن) بَذَرًا. الْحَبُّ: بونا۔ اَلْعَالُ: کما جاتا ہے "بَذَلَ نَفْسَهُ ذُونًا أَوْ عَنِ فَلَانٍ" اس نے فلاں کی حمایت میں اپنی جان لڑادی۔ صفت (بَذَلٌ وَبَذُولٌ) اور صفت مضوی (مَبْذُولٌ) بَذَلَ جَهْدَهُ: پوری کوشش کرنا (بَذَلَ) اَلْقُوْبُ: کام کے وقت پہنایا روزانہ استعمال کرنا۔ كَلَامٌ مُبْتَذَلٌ: گھٹیا بات۔ کثیر الاستعمال۔ صَيَّفَ صَدَقِي الْمُبْتَذِلَ: حیر دھار والی کلمہ۔</p> <p>تَبَذَلَ وَابْتَذَلَ: چھوڑا ہوا۔ وقار کے خلاف کرنا۔ اِبْتَذَلَ: روزانہ پینے کے کپڑے استعمال کرنا۔ پرانے بوسیدہ کپڑے پہننا۔ التَبْذُلُ: عطا۔ بَطَّشَ: زَجَلٌ بَذَلٌ: فیاض خورد۔ البَذْلَةُ: مِنَ الْقِيَابِ: روزانہ استعمال کپڑے۔ التَبَذُّلُ وَالمَبْتَذِلُ: بہت فیاض کرنے والا۔ اَلْمَبْتَذِلُ وَالمَبْتَذَلَةُ: روزانہ استعمال کپڑے۔ پرانا بوسیدہ کپڑا۔ مَحَابِلُ: بَذَلَخٌ بَذَلَخًا وَبَذَلَخًا: قول کے مطابق عمل نہ کرنا۔ صفت مَبْتَذِلٌ وَبَذَلَخٌ: بَذَمٌ (ک) بَذَامَةٌ: کسی رائے پر پختگی کے ساتھ ڈٹ جانا۔ صفت مَبْلَمٌ۔ البَذْمُ: ذُورَانَةٌ: قوت۔ طاقت۔ رائے کی ٹھنگی۔ صروت۔ اَلْمَبْتَذِمُ: مضبوط اونٹنی۔ بَذَا (ن) بَذَاؤًا وَابْتَذَى اِبْتَذَاءً: عَلَيَّهِ: خوش بکنا۔ بَذَوُ (ک) بَذَاءً وَبَذَاءَةً: خوش گوہرنا۔ صفت (بَذِي) حِجَابٌ بَذِيَاءٌ مَوْسَمٌ (بَذِيَّةٌ) البَذَاءُ: بیوہ کلام۔ بَزْرَانٌ (ن) بَزْرًا وَهَبْرًا وَالْبَذَاءُ: اطاعت کرنا۔ حسن سلوک کرنا۔ خدمت کرنا۔ صفت (بَزْرَانٌ) حِجَابٌ وَابْتَرَادُ (بَزْرَانٌ) بَزْرًا: حَالِقَةٌ: اطاعت کرنا۔ بَزْرَاتُ البَيْضِ: جسم پوری ہونا۔ بَزْرَاتُ الصَّلَاةِ: نماز کا مقبول ہونا۔ بَزْرَاتُ اللّٰهِ الصَّلُوَّةُ: نماز کو قبول کرنا۔ بَزْرَةٌ: نیک چلن قرار دینا۔ وجہ جواز پیدا کرنا۔ نَزَاةٌ: حسن سلوک کرنا۔ مہربانی کا ابر تاد کرنا۔ اَبْرٌ: خشکی کا ستر کرنا۔ عَلَيَّهِ: غالب ہونا۔</p>	<p>بَذَرُ (ن) بَذَرًا. الْحَبُّ: بونا۔ اَلْعَالُ: فضول خرچی میں اڑانا۔ الْعِلْمُ: پھیلاتا۔ اشاعت کرتا۔ اَلْاَرْضُ: اگانا۔ "فَهَبُوا شَذْرَ بَذْرٍ وَشَذْرَ بَذْرٍ" وہ لوگ ہر طرف بکھر گئے۔ بَذَرُ اَلْعَالُ: فضول خرچی میں بکھیرنا۔ صفت (بَذَرٌ وَبَذَلٌ وَبَذَلَةٌ) تَبَذَرُ وَابْتَذَرُ: متفرق ہونا۔ تَبَذَرُ الْمَاءُ: رنگ بدل کر پھیلا جانا۔ اَلْبَذْرُ: تخم ریزی کے لیے حج۔ نسل۔ کما جاتا ہے "اِنَّهُ بَذْرٌ شُرُوْبٌ" وہ بری نسل کا ہے۔ حِجَابٌ وَبَذْرٌ وَبَذَارٌ۔ اَلْبَذْرُ وَالبَذَارُ وَالبَذَارَةُ وَالبَذَارُ: بنت بک بک کرنے والا۔ فضول خرچی کرنے والا۔ اَلْبَذْرُ وَالبَذِيرُ: چٹل خورد۔ وہ شخص جو اپنے راز کو چھپانے کے بجائے بَذَرُ اَلْمَبْتَذِرُ: فضول خرچی کرنے والا۔ البَذْرِيُّ: باطل۔ بہت فضول خرچ۔ اَلْمَبْتَذِرُ: بہت۔ بَذْرُقُ اَلْعَالُ: بکھیرنا۔ فضول خرچی کرنا۔ مہربانی کرنا۔ اَلْمَبْتَذِرِيُّ: راہبر۔ رہبان۔ رہنما۔ بَذَعَهُ (ف) بَذَعًا: گھبراہٹ میں ڈالنا۔ ڈرانا۔ بَذَعُ الْاِنَاءُ: برتن کا پھینا۔ اَبْتَذَعَهُ: ڈرانا۔ خوف ڈالنا۔ گھبراہٹ میں ڈالنا۔ البَذْعُ: برتن سے نکلنا۔ البَذْعُ: خوف۔ ڈر۔ اَلْمَبْتَذِعُ: خوفزدہ۔ اِبْتَذَعُ: متفرق ہونا۔ اِبْتَذَعَتِ الْعَيْتَلُ: کسی چیز کی طلب میں دوڑنا۔ البَذَقُ وَالبَذَاقُ: انگوڑا کاشیرہ توڑا سا پکایا ہوا۔ البَذَالَةُ: پیادے۔ البَذِيَّةُ: ستر کار ہنما۔ پیادہ۔ حِجَابٌ بَذِيَّةٌ: اَلْمَبْتَذِيَّةُ: وہ شخص جس کا قول عمل سے بہتر ہو۔ اِبْتَذَقُ: متفرق ہونا۔ بگاڑنا۔ کما جاتا ہے۔ "عَا اِبْتَذَقُوا الدَّمَّ فِي الْمَاءِ" یعنی خون پانی میں نہیں ملا۔ بَلَسَ (ن) بَلَسًا: اَلشَّيْءُ: روٹ۔ سلامت کرنا۔</p>	<p>وَبَذَوِيٌّ مَوْسَمٌ بَذَوِيَّةٌ حِجَابٌ بَذَوِيٌّ: التَبَذْوَةُ: بادی کا کنارہ۔ البَذَاءَةُ: گھسی۔ خاک۔ قائم کردہ رائے۔ حِجَابٌ بَذَوَاتٌ۔ بَذَاوَةُ الْأَمْرِ: آغازِ مصلحہ۔ والبذوات: غلط رائے۔ بَذَا (س) بَذَاؤًا وَبَذَاؤًا وَبَذَاؤَةً وَبَذَاؤَةً: بَدْحٌ حال ہونا۔ گھلت حال ہونا۔ صفت (بَذَا وَبَذَاؤٌ) مَوْسَمٌ (بَذَاؤٌ وَبَذَاؤَةٌ) بَذَهَ (ن) بَذَهًا: غالب ہونا۔ فاتح ہونا۔ بَذَاهُ: سبقت کرنا۔ اِبْتَذَهَ مِنْهُ حَقَّةٌ: لیتا۔ البَذْوُ وَالبَذِيَّةُ: حش۔ اور کما جاتا ہے۔ "زَجَلٌ بَذِيَّةٌ" بگت روزگار خورد۔ بَذَا (ف) بَذَاؤًا: اَلشَّيْءُ: ناپسند کرنا اَلشَّخْصُ وَ عَلَيَّ الشَّخْصِ: حقاقت کرنا خدمت کرنا۔ بَذَا (ف) وَبَذِيٌّ (س) وَبَذَوُ (ک) بَذَاءَةً: حش گوہرنا۔ بیوقوف ہونا۔ صفت (بَذِيٌّ) اَرْضٌ بَذِيَّةٌ: وہ زمین جس میں گھاس نہ ہو۔ اَبْتَذَا: حش گوئی کرنا۔ بَذَاهُ: چھڑا کرنا۔ حش گوئی کرنا۔ البَذَجُ: بکری کا پتہ۔ حِجَابٌ بَذَجَانٌ بَذَجَةٌ (ف) بَذَجًا: حیرنا۔ اَلْحِجْلَةُ عَنِ الْعَرَبِيِّ: کمال ہونا۔ تَبْلَخُ: اَلشَّخَابُ: برستا۔ البَذَجُ: بچھن۔ حِجَابٌ بَذَجُوحٌ: کما جاتا ہے۔ "لِى وَجْهٍ بَذَجُوحٌ" اس کے پاس میں بوائے ہے۔ البَذَجُ: رالوں کی خراش۔ بَلَخٌ (س) بَلَخًا وَبَلَخًا (ف) بَلَخًا وَبَلَخًا: (ک) بَلَخًا وَبَلَخًا: بلی ہونا۔ بکیر کرنا۔ بلی شان والا ہونا۔ صفت (بَلَخٌ) حِجَابٌ وَ (بَلَخٌ) حِجَابٌ وَ (بَلَخٌ) حِجَابٌ: بلی ہونا۔ بَلَخًا: بکیر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ البَذَجُ: بکیر کرنے والا۔ مِنَ الْاِبْلِ: بہت ہلکا سے والا اونٹ۔ البَذَجِيُّ: بوا۔ البَذَجُ: ہونے جسم والی عورت۔</p>
--	--	--

فائق ہوتا۔ اللہ حُخْتَه: قبول کرنا۔
 التَّيْمَنُ: قسم پوری کرنا۔
 تَبْرُؤٌ: نیک ہونا۔ نیکی کے اظہار کا ارادہ کرنا۔
 تَبْرُؤَةٌ: طاعت کرنا۔
 تَبَارَءَ الْقَوْمُ: ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ
 نیکی کرنا۔
 التَّبْرُؤُ: ساتھیوں سے کنارہ کش ہونا۔
 التَّبْرُؤُ: اللہ تعالیٰ کے سامنے حسنیٰ میں سے ہے۔
 تَبْرُؤٌ: نیکو کار۔ خشک زمین۔ ج تبْرُؤُ۔ کہا جاتا ہے
 "جَلَسْتُ بَرًّا" میں گھر سے باہر بیٹھا۔ "خَرَجَ
 بَرًّا" وہ بیابان کی طرف نکلا۔ وَأَرِنْدُ خَبْرًا وَيُرِنْدُ
 بَرًّا" میں پوشیدگی چاہتا ہوں اور وہ علانیہ (یہ قدیم
 معاشرہ نہیں ہے)
 التَّبْرُؤُ: عیب۔ طاعت۔ صلاحیت۔ سچائی۔ نیک
 دل۔ لومڑی کا بچہ۔ چہا۔ بڑا چہا۔
 التَّبْرُؤُ کیوں۔ واحد (تَبْرُؤَةٌ)
 التَّبْرُؤُ والتَّبَارُؤُ: نیکو کار۔ بھلائی کرنے والا۔ بَرَّتْ
 نیکی کرنے والا۔ سچاچ آئو اور تَبْرُؤَةٌ۔
 التَّبْرُؤُ: ضد۔ عری۔ مِنْ التَّبَاتِ: جنگلی
 مِنْ التَّبْرُؤَانِ: وحشی۔
 التَّبْرُؤَةُ: جنگل بیابان۔ ج تَبْرُؤَانِي۔
 التَّبْرُؤَانِي: ظاہر۔ کہا جاتا ہے "مَنْ أَصْلَحَ
 جَوَانِبُهُ أَصْلَحَ اللَّهُ بَرَاتِيَهُ" جو شخص اپنے
 باطن کو درست کرے گا اللہ اس کے ظاہر کو
 درست کرے گا۔
 التَّبْرُؤِيَّت: جنگل۔ بیابان۔ ج تَبْرُؤَانِيَّت۔
 التَّبْرُؤُ: اسم تفضیل۔ عرب کے قول "أَصْلَحَ
 الْعَرَبُ أَبْرَهُمْ" کا مقصد یہ ہے کہ عرب کا سب
 سے زیادہ فصیح وہ بدوی ہے جو شہر سے بَرَّتْ
 دور ہو۔
 التَّبْرُؤِي: اچھی بات۔
 التَّبْرُؤَةُ: جو نیکی پر ابھارے۔ عیب۔ ج
 تَبْرُؤَاتٍ وَمَتَابِرٍ۔
 التَّبْرُؤُورُ: مِنَ الْأَفْعَالِ: شبہ۔ بھوت خیانت
 سے ظاہر۔
 التَّبْرُؤُورُ: درخت پیلو کا پہلا پھل۔ واحد تَبْرُؤُورَةٌ
 تَبْرُؤَةٌ (ف) تَبْرُؤَةٌ وَ تَبْرُؤَةٌ: نیست سے
 صحت کرنا۔

تَبْرُؤِي (س) تَبْرُؤَةٌ أَوْ تَبْرُؤَةٌ أَوْ تَبْرُؤَةٌ: مِنَ الْعَيْبِ
 وَالذَّنْبِ: خلاصیانا۔ نجات پانا۔
 تَبْرُؤِي (س) وَ تَبْرُؤَا (ف) وَ تَبْرُؤَا (ك) تَبْرُؤَةٌ أَوْ
 تَبْرُؤَةٌ: مِنَ الْعَرَضِ: شغلیاب ہونا۔ چنگا ہونا۔
 تَبْرُؤَةٌ تَبْرُؤَةٌ: بری کرنا۔ پاک کرنا۔ مِنْ
 الشَّهْمَةِ: دور کرنا۔
 التَّبْرُؤُ: الصَّرْفُ: شغافتا۔ هُ مِنَ الذَّنْبِ:
 بری کرنا۔ التَّبْرُؤُ: مینے کی پہلی رات میں
 داخل ہونا۔
 تَبْرُؤٌ: شَرِيكَةٌ: شریک سے جدائی اختیار کر لینا۔
 تَبْرُؤٌ مِنَ الذَّنْبِ: گناہ سے ہزار ہونا۔
 تَبْرُؤٌ: التَّبْرُؤُ جَانِبِي: شہر بیوی کا ایک دوسرے
 سے جدا ہونا۔
 التَّبْرُؤُ: قَرْضٌ يَأْتِيهِ مِنَ الرَّاءِ طَبَقٌ:
 التَّبْرُؤِي وَ التَّبْرُؤِي: خالص۔ خالی۔ گناہ و حسرت
 سے پاک۔ ج تَبْرُؤِيون وَ تَبْرُؤَاءُ وَ تَبْرُؤَاءُ
 وَأَبْرَاءُ: مَوْتٌ تَبْرُؤَةٌ وَ تَبْرُؤَةٌ ج تَبْرُؤَاتٍ وَ
 تَبْرُؤَاتٍ وَ تَبْرُؤَا۔
 التَّبْرُؤُ: مینے کی پہلی رات۔ "إِنَّ التَّبْرُؤَاءَ" مینے
 کی آخری رات۔ کہا جاتا ہے "أَنَا تَبْرُؤَاءٌ مِنْ كَذَا"
 میں اس سے بری ہوں۔ (اس کا تشبیہ جمع نہیں اور
 نہ اس کے لیے مَوْتٌ ہے)
 التَّبْرُؤَةُ: شکاری کی جمونیزی۔ ج تَبْرُؤَاءُ
 التَّبْرُؤَةُ: تَبْرُؤِي کا مصدر۔ فرمان۔ پروانہ۔ ج
 تَبْرُؤَاتٍ۔
 التَّبْرُؤُ: پیدا کرنے والا۔ صحت یاب۔ جس کی
 لاغری ہوتی ہو۔
 التَّبْرُؤَةُ: مطلق۔ ج تَبْرُؤَا۔
 التَّبْرُؤَاتِ وَ التَّبْرُؤَاتِي: پرندہ کی گردن کے پر۔
 التَّبْرُؤَاتِي: مرغ۔
 تَبْرُؤَانٌ وَ تَبْرُؤَانٌ وَ تَبْرُؤَانٌ: الطَّلَايُوتُ: پرندہ کا لڑنے
 کے لیے گردن کے پر کھڑے کرنا۔
 التَّبْرُؤُ: مٹی کا پرنا۔ ج تَبْرُؤَانِجٍ
 تَبْرُؤُوتُ: بک بک کرنا۔ بڑبڑانا۔ صفت (تَبْرُؤَا)
 تَبْرُؤُوتُ: وحشی ہونا۔
 التَّبْرُؤُوتِي: قوم ہمد کا ایک فرد۔
 التَّبْرُؤُوتُ: مغربی افریقہ کی ایک قوم۔ اور بنا
 اوقات اس لفظ کا اطلاق رنگیوں اور حشیوں پر

بھی ہوتا ہے۔ ج تَبْرُؤُوتُ وَ تَبْرُؤُوتُ۔
 التَّبْرُؤُوتُ: شہر۔
 تَبْرُؤُوتُ: طلب کرنا۔
 تَبْرُؤُوتُ: کتے کی ماہر چلنا۔
 التَّبْرُؤُوتُ: گہرا کنواں۔
 تَبْرُؤُوتُ: الْأَرْضُ: شیخہ۔
 التَّبْرُؤُوتُ: بھلا (باج)۔
 تَبْرُؤُوتُ (ش) تَبْرُؤُوتُ: الشَّيْءُ: کاٹنا۔
 تَبْرُؤُوتُ (س) تَبْرُؤُوتُ: حیران ہونا۔
 التَّبْرُؤُوتُ وَ التَّبْرُؤُوتُ: گہنی۔ شہر سفید التَّبْرُؤُوتُ:
 کھانا۔
 التَّبْرُؤُوتُ وَ التَّبْرُؤُوتُ: باہر راہبر۔ ج تَبْرُؤُوتُ۔
 التَّبْرُؤُوتَانِ: تاریخی۔ تاریخی کا درخت۔ واحد
 (تَبْرُؤُوتَانِ)
 تَبْرُؤُوتُ تَبْرُؤُوتُ: التَّبْرُؤُوتُ: مجازاً۔ ٹکڑے
 ٹکڑے کرنا۔ الشَّيْءُ: حیوانی کی ماہر کاٹنا۔
 التَّبْرُؤُوتُ: چھوٹے ٹیلے (جمع ہے اس کا
 واحد نہیں)
 تَبْرُؤُوتُ (س) تَبْرُؤُوتُ: خوش حالی میں زندگی بسر کرنا۔
 التَّبْرُؤُوتُ: نرم و ہموار زمین۔ ج تَبْرُؤُوتُ وَ تَبْرُؤُوتُ
 وَ تَبْرُؤُوتُ۔
 التَّبْرُؤُوتُ: مِنَ التَّبْرُؤُوتِ وَ الطَّلَايُوتِ: بچہ۔ چنگل ج
 تَبْرُؤُوتِ۔
 التَّبْرُؤُوتَةُ: شوکت و قوت۔
 تَبْرُؤُوتُ (س) تَبْرُؤُوتُ: کہا جاتا ہے تَبْرُؤُوتُ۔ تَبْرُؤُوتُ
 عَيْلَةٌ: آگہ کا سیاہ اور کشادہ ہونا۔ خوبصورت
 ہونا۔ صفت (تَبْرُؤُوتُ) اور آگہ کی صفت (تَبْرُؤُوتُ)
 ج تَبْرُؤُوتُ۔
 تَبْرُؤُوتُ: الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔ بلند ہونا۔
 تَبْرُؤُوتُ وَ تَبْرُؤُوتُ: مدح ہونا۔
 تَبْرُؤُوتُ: التَّبْرُؤُوتَةُ: اجنبیوں کے سامنے
 آراستہ ہو کر لگانا۔
 التَّبْرُؤُوتُ: خوبصورت۔ نمایاں۔ روشن۔ ج
 تَبْرُؤُوتُ۔
 التَّبْرُؤُوتُ: ستون۔ قلعہ۔ محل۔ منار۔ گنبد۔ ج
 تَبْرُؤُوتُ وَ تَبْرُؤُوتُ وَ تَبْرُؤُوتُ: آسمانی برہمن
 میں سے ایک۔ آسمانی برج دار ہیں جن کے نام یہ
 ہیں۔ محل۔ ٹور۔ جو زام۔ سرطان۔ اسد۔ سنبلہ۔

المصائب يتبرد" وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی میں آتا۔
تباؤد: کسی کام میں سست ہو جانا۔ ٹھنڈک ظاہر کرنا۔
إِتْبَرَدَ: ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا۔
إِسْتَبْرَدَهُ: ٹھنڈا پانا۔ اِسْتَبْرَدَ عَلَيْهِ لِسَانِهِ: اس نے اس پر زبان درازی کی۔
التَّبْرَدُ: سردی۔ نیند۔
التَّبْرَدَانِ وَالْأَبْرَدَانِ: صبح شام التَّوَدُّ: اولہ۔
التَّوَدُّ: ایک اولہ بہ ہنسی۔
التَّبْرَدُ: سرد جس سے آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے۔
قَوْبُ التَّبْرَدِ: وہ کپڑا جس کی درزا بھری ہوئی ہو۔
التَّبْرَدُ: پانی میں تڑکی ہوئی روٹی۔
التَّبْرَدُ: دھاری دار کپڑا۔ ج. تَبْرَدٌ وَ تَبْرَدٌ وَ تَبْرَدٌ: کہا جاتا ہے "وَقَعُ يَتَبْرَدُهُمْ فَلَمَّا تَبْرَدُ يَخَالِفُهُ" یعنی چادریں ان کے درمیان پھینیں۔ یعنی سب آپس میں جھگڑے۔
التَّبْرَدُ: کالا کھیل۔ واحد تَبْرَدَةٌ ج. تَبْرَدٌ۔
التَّبْرَدِيُّ: ایک قسم کا پودہ جس کی پھال کو قندام ممبرکات کے لیے استعمال کرتے تھے۔
التَّبْرَدِيُّ: ایک قسم کی عمدہ کھجور۔
التَّبْرَدَةُ: ریتی کرتے ہوئے لوہے وغیرہ سے جو کچھ گرے۔
التَّبْرَدَاءُ: جاڑا بخار۔
التَّبْرَدَةُ: پانی ٹھنڈا کرنے کا رتن۔
التَّبْرِيدُ: قاصد۔ ج. تَبْرِيدٌ۔ تقریباً بارہ میل کی مسافت ڈاک خانہ۔
التَّبْرَادُ: فاء عَيْشٌ بَارِدٌ: خرگوار زندگی۔
"عَيْنِي بَارِدَةٌ" بغیر جنگ اور مشقت کے حاصل کی ہوئی نینت۔ حَجَّةٌ بَارِدَةٌ: کمزور دلیل۔ المَرْهَقَاتُ التَّبْرَادُ: تیز کلٹھے والی تلوار۔
الْأَبْرَدُ: چیتا۔ ج. أَبْرَادٌ۔ مؤنث الْأَبْرَدَةُ التَّبْرَدُ: ریتی۔
المَبْرَدَةُ: وہ چیز جو ٹھنڈک پیدا کرنے والی ہو۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَبْرَدَةٌ لِتَبْدَنِ" یہ بدن کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے۔

تخفی۔ تکلیف۔ برائی۔
التَّبْرُوحُ: بروہت انگیز معاملہ۔
أَمْزُجُ (تَبْرُوحُ): تکلیف دہ معاملہ۔
التَّبْرُوحُ: کشادہ زمین جس میں درخت اور عمارت نہ ہو۔ کہا جاتا ہے۔ "لَا تَبْرُوحُ" کوئی چارہ کار نہیں۔ "وَجَاءَنَا الْأَمْزُجُ بِرُوحَا" معاملہ لمبیاں طور پر سامنے آیا۔ "وَجَاءَ بِالْكَفْرِ بِرُوحَا" اس نے کلمہ کلا کفر کا طعنا کیا۔
تَبْرُوحُ: ہر وزن قَطَامُ: آفتاب کے لیے عَلَمٌ ہے۔
التَّبْرُوحُ وَ التَّبْرُوحَةُ: گذشتہ رات۔ التَّبْرُوحَةُ الْأَوَّلَى: گذشتہ رات سے پہلی رات۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ لَفْعَةٌ تَبْرُوحَةٌ" یہ فعل غلط اور غیر ارادی ہے۔
تَبْرُوحِي: ایک کلمہ جس کو نشانہ میں غلطی کے وقت بولتے ہیں اور مَرْحِي اس کے خلاف ہے۔
التَّبْرُوحُ: گرم ہوا۔ ج. تَبْرُوحٌ۔
ابن تَبْرُوحٍ: کوا۔
التَّبْرُوحِيُّ: مشقت ہائے زندگی۔ کہا جاتا ہے "تَبْرُوحُ الشُّوقِ" سوزِ شائے عشق۔
تَبْرَدٌ (ن) تَبْرَدٌ وَ تَبْرَدٌ (ک) تَبْرَدَةٌ: ٹھنڈا ہونا۔ صفت (تَبْرَدٌ وَ تَبْرَادٌ وَ تَبْرَوْدٌ وَ تَبْرَادٌ) تَبْرَدَتِ الْأَنْزُصُ: اولے پڑا۔ تَبْرَدَ الْقَوْمُ: سردی لگنا یا اولے پڑنا۔ تَبْرَدَ الْحَقُّ عَلَيْهِ أَوْلَةً: ثابت ہونا۔ تَبْرَدَ فَلَمَّا: سونا۔ سست ہونا۔ کہا جاتا ہے "جَدَّ لِي الْأَمْزُجُ تَبْرَدٌ" اس نے معاملہ میں کوشش کی پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔
تَبْرَدٌ (ن) تَبْرَدٌ: العَلْبِيَّةُ: ریتی سے رگڑنا۔
التَّبْرَدُ: روٹی پر پانی ڈالنا _____ العَيْنُ: ٹھنڈا سرد لگانا۔
تَبْرَدَةٌ (ن) تَبْرَدٌ أَوْ تَبْرَدَةٌ: ٹھنڈا کرنا _____ التَّبْرُوحُ: تکلیف کو ہلکا کرنا۔ سکون دینا _____ الْحَقُّ: ثابت کرنا۔ واجب کرنا۔ بردنِ اللیل وَ تَبْرَدَ عَلَيْهِ: رات کو ٹھنڈک لگانا۔
تَبْرَدٌ: موسمِ سرمایا اولوں میں داخل ہونا _____ إِلَيْهِ التَّبْرِيدُ: قاصد بھیجا _____ الشَّقِيُّ: ٹھنڈا کرنا۔
تَبْرَدَةُ الْعَرَضِ: کمزور کرنا۔
تَبْرَدٌ: ٹھنڈک چاہنا۔ کہا جاتا ہے "نَزَلَ لِي

مِيزَانُ - عقرب۔ قوس۔ ہمدی۔ دلو۔ اور حوت۔
التَّبَارِجُ: باہر کشی بان۔
التَّبَارِجَةُ: بڑی جنگل کشی۔ ج. تَبَارِجٌ۔ کہتے ہیں "مِمَّا فَلَانٌ إِلَّا تَبَارِجَةٌ قَدْ جَمَعَ فِيهَا كُلُّ الشَّيْءِ" یعنی فلاں بڑا شہر ہے۔ "مَنْغِيثَةُ تَبَارِجَةُ" کھلی ہوئی کشی۔
تَبَارِجُ التَّبَاتِ: نباتات کے پھول۔
الْأَبْرِيحُ: دو دوہ بولنے کا آلہ۔
التَّبْرُوحُ: موٹا دھاری دار کھیل۔
الْبُرُوحِيُّ: ایک ستارہ کا نام جس کو مشتری کہتے ہیں۔ نینت دو دوہ والی اونٹنی۔
التَّبْرُوحَةُ: ج. تَبْرُوحٌ: انگلیوں کے جوڑ ہاتھ پیر کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں۔ انگلیوں کے جوڑ کی پشت۔
التَّبْرُوحِيُّ: قبیلہ جمیم کی ایک شاخ۔ "إِنَّ الشَّقِيَّ وَالْهَدَى التَّبْرُوحِيُّ" ایشہ عرب میں سے ہے اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو لالچ کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ جب سوید بن ربیعہ نے عمرو بن ہند کے بھائی کو مار ڈالا تو عمرو بن ہند نے بنو جمیم کے سو آدمیوں کو جلانے کی قسم کھالی اور بنو دارم (قبیلہ بنی جمیم کی ایک شاخ) کے ننانوے آدمیوں کو قتل کر کے جلانے لگا تو ایک شخص جو براجم میں سے تھا گوشت کے جلنے کی بو پا کر وہاں آ موجود ہوا۔ عمرو بن ہند نے اس کو بھی قتل کر کے اپنی قسم پوری کر لی۔
تَبْرُوحُ (س) تَبْرُوحٌ وَ تَبْرُوحَا: الْمَكَانُ وَ مَنَّةٌ: ہٹنا۔ جدا ہونا۔ نازل ہونا۔ کہا جاتا ہے "فَتَبْرُوحُ وَلَا تَبْرُوحُ عَرِيْبًا" بمعنی مازال و لآزلت تَبْرُوحُ الخفاء: ظاہر ہونا۔
تَبْرُوحُ (ن) تَبْرُوحَا: التَّبْرُوحُ: ٹھنڈناک ہونا _____ (تَبْرُوحَا) الصَّبِيُّ: دائی جانب سے گزرنا۔ صفت (تَبْرُوحٌ وَ تَبْرُوحٌ وَ تَبْرُوحٌ) تَبْرُوحُ: بہا اَمْزُجُ: تمکنا۔ سخت تکلیف دینا۔
اللَّهُ عَتَلَكُ تَكْلِيفٌ دَوْرٌ كَرًا۔
أَبْرُوحَةُ: ہٹانا۔ تقسیم کرنا۔ تعجب میں ڈالنا۔
تَبْرُوحُ: الْمَكَانُ: جھاڑو۔
التَّبْرُوحُ: ج. أَبْرُوحٌ وَ التَّبْرُوحُ وَ التَّبْرُوحَةُ):

صفت (بارع)

برعة: عجم یا صلیت یا جمال میں غالب ہونا۔

برع الخبیل: بہا پر حرام۔

تبرع بالعطاء: عمدتہ کرنا۔ تبرع کرنا۔

التبریع: عمل و جمال میں کامل۔ تبرق تبریع:

دور سے چمکنے والی بجلی۔

التبرعت: طلقہ در۔

البرعس والبرعس: بہت دودھ دینے والی

اودنی۔ التبرعس: خیتوں پر مہر کرنے والا۔

تبرعص الزجل: کسی کے نیچے چھلانا۔

تبرعصت الخیة: کتلی مارنا۔

التبرعل: بچو کا پتہ۔

تبرعم تبرعمۃ وتبرعم۔ الشجر: ٹھونڈ

لگانا۔

التبرعم والتبرعمۃ: ج تبراعم و التبرعموم

و التبرعمۃ: ج تبراعم: ٹھونڈ ناگفتہ۔ پھل کا

غلاف۔

تبرع (س) تبرعاً: ناز و نعمت سے زندگی بسر کرنا۔

التبرغ: اعلاب۔

تبرعت۔ المکان: بہت پھولوں والا ہونا۔

التبرعوت: پھول۔ ج تبرعوت۔

تبرعوت التبرع: جھینکا۔

التبریز والتبریز والتبریز والتبریز: گائے یا نیل کا

پتہ۔ ج تبریز و تبریز۔

التبرعش: جھمر۔ واحد (تبرعشۃ)

البرعی والتبرعی: تپ والی کیل۔ ج براعی

فصیح عربی لولب ہے۔

البریزیر: ارغوانی رنگ۔ ارغوانی رنگ سے

رنگا ہوا کپڑا۔

تبرق (ن) تبرقا و تبروقا و تبرقانا و تبرقنا:

التبرقی: ظاہر ہونا۔ الشئی: چمکانا۔ روشن

ہونا۔ الشماء: چمکنی ہوئی بجلی والا ہونا۔

الزجل: دھمکانا۔

تبرقت (ن) تبرقا و تبرقت و تبرقت:

التمزاة: آراستہ ہونا۔

تبرق (س) تبرقا: تمیر ہونا۔ چند مایا جانا۔ خیرہ

چشم ہونا۔

تبرقة: آراستہ کرنا۔ تبرقی عنینہ و بعینہ: آنکھ

بہا پر ہاؤ کر دیکنا۔

التبرق: برق زدہ ہونا۔ دھمکانا۔ دور کا سفر کرنا

بسنیہ: چمکانا۔ عن وجہہ: ہلانا۔

التبرقت الشماء: چمکنی ہوئی بجلی والا ہونا۔

التبرق: بجلی ج تبروقی۔ کہا جاتا ہے تبرقی

تخلب و تبرق تخلب و برق التخلب: بے بارش

کی بجلی۔

التبرقة: بجلی والا بادل۔ کواہریں۔ مسخاتہ

(تبرقة) بجلی والی ہڈی۔

التبرقة: دہشت۔ خوف۔

التبرقی: گمراہی۔ دہشت۔ بھیر کا پتہ۔ ج

التبراق و تبرقان۔

التبرق: گمراہ۔

زجل (تبروق) ہزدول۔

التبرقة: ج تبرق و (التبرق) ج التبرق: سخت

ترین زمین جس میں ریت گارا تھو۔ اس کی تصغیر

(التبرقی) ہے۔ التبرق: سیاہ سفید رنگ والا۔

التبرق: اس جانور کا نام ہے جس پر نبی کریم

ﷺ شب سراج میں سوار ہوئے تھے۔ اس جانور

کا نگوں سے بڑا اور ٹھہرے چھوٹا تھا۔

التبریقی: تھوڑا سا تیل یا گھی جو کھالے میں ڈالا

جاتے۔

متبرقی: الصبیح: صبح طلوع ہونے کی جگہ۔ ج

متبارق و متبارق۔

تبرق تبرقۃ و تبرق و جہہ: بد صورت

ہونا۔ التبرق: آلود ہونا۔

تبرقۃ تبرقۃ: مختلف رنگوں سے آراستہ کرنا

فی الکلام: بے سروبی کی باتیں کرنا۔

تبرقش: مختلف رنگوں سے آراستہ ہونا۔

التبرقش: ایک لطیف آواز اور رنگین پردوں

والا پرندہ۔

التبرقش: ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے پر کا

ہلالی حصہ خاک اور بیج کا حصہ سرخ اور نیچے کاسیہ

ہوتا ہے اور جب وہ پر نکالتا ہے تو مختلف رنگ

دکھائی دیتے ہیں۔ مجازاً احمقوں الزنج کو کہتے ہیں۔

التبرقوش: پھانسی ہونا۔

تبرقظ: قریب قریب قدم سے چلنا۔ مڑ مڑ کر

دیکھنا۔ الکلام: بے ترتیب بولنا۔

تبرقہا: برقع اوڑھنا۔

تبرقت: برقع اوڑھنا۔

التبرق: برقع۔

تبرقل: جھومت بولنا۔

التبرقلة: قول جو عمل سے خالی ہو۔

التبرقل: ایک قدیم قلعہ جس کا نام آج

التبرقوی: شمشیر۔

تبرک (ن) تبروکا و تبراکا و تبرک

و استبرک۔ التبرک: شہناہ۔ تبرک بالمکان:

اقامت کرنا۔

تبرک فیہ: برکت کی دعا کرنا۔

تبارک التبرک: برکت کی دعا کرنا۔ راضی ہونا۔

تبارک اللہ لک و لیک و علیک و تبارکک:

برکت دینا۔ بولتے ہیں "تبارک علی الأنبیاء

و الہم" یعنی ان کی عزت و عظمت جو تو نے

انہیں بخشی ہے برقرار رکھ۔ اور تبرک فیہ اس

سائل سے کہتے ہیں جس کو دفع کرنا منظور ہوتا

ہے۔

التبرکۃ: اونٹ کو شہناہ۔

التبرک بہ: برکت حاصل کرنا۔

تبارک بہ: نیک ٹھون لینا۔ اللہ:

مقدس ہونا۔

التبرک: القوم: سمجھوں کے بل بیٹھ کر جگ

کرنا۔ التبرکوا فی الغدو: تیر دوڑنے کی

کوشش کرنا۔ فلاناً: پھاڑنا اور اپنے سینہ

کے نیچے دیا لینا۔ فی عزبہ و علیہ: کمال

دینا۔ اہانت کرنا۔

استبرک: برکت کی مثال لینا۔

التبرک: سینہ۔ اونٹوں کا گھہ۔ واحد (بارک)

مؤنث (بارکۃ) ج تبروک۔

التبرکۃ: زیادتی۔ بہتت۔ نیک بختی۔ نمو

التبرکۃ: اونٹ کے بیٹھے کی بہت۔ پانی جمع

ہونے کی جگہ۔ حوض۔ ج تبرک۔ دودھ دینے والی

بکری۔ ج تبرکات۔

التبرکۃ: ایک چھوٹا سفید آبی پرندہ۔ پینے

والے کی اجرت۔ ج تبرک و تبرک و تبرکان۔

التبریک: اونٹ۔

التبروک: بزدل۔ کابوس۔

الشراک: پہاڑی لینے والا۔ سینے والا۔
الْمَنْزُکُ: اونٹ کے پیٹھے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "لینس بفلانٍ متوک جمل" یعنی فلاں کے پاس کچھ نہیں۔
الْمَنْزُکَةُ: بارہ سی۔

الْمَنْکَارُ وَالْمَنْکَارُ: پر کار (جدید)
الْمَنْکَانُ: آتش نشاں پہاڑ۔ جو الہامی (جدید)
بَرْکَةُ: کانا۔ پھاڑنا۔ بَرْکَةُ الْقَرْمِشِ: چاروں بیروں پر کھڑا ہونا اور گھٹوں کے بل گرنا۔

بَرْکَةُ وَتَبْرُکُ: الْکَرْجَلُ: جو ترکے بل گرنا۔
الْمَنْزُکَةُ: پست قدر۔
جَوْعٌ (بَرْکُوعٌ) تحت ہموک۔
بِرْمٌ (ن) بَرْمًا و بَرْمٌ: الْحَبْلُ: دو لڑیوں کو پٹنا۔
صفت مفعول (مَنْزُومٌ و بَرْمٌ)۔ الْأَمْرُ: مضبوط کرنا۔

بِرْمٌ (س) بَرْمًا: تنگ دل ہونا۔ زچ ہونا۔
بَحْبُجِيَّةٌ: دلیل کا پٹنا۔
أَبْرَمٌ: الْحَبْلُ: یعنی بَرْمٌ الْحَبْلُ: ہ: زچ کرنا۔
عَلَيْهِ فِي الْجَدَالِ: خاموش کرنے کے ارادے سے بحث کئے جانا۔
تَبْرَمٌ: زچ ہونا۔

إِبْرَمٌ: الْحَبْلُ: رتی کا پٹ جانا۔
اَلْبَرْمُ: درخت خصلہ کا پھل (دیکھئے غصاہ) جو بھول لیم۔ وہ شخص جو محل کی وجہ سے جوئے میں شریک نہ ہو۔ ج۔ ابرام۔
الْبُرْمَةُ: پتھر کی ہانڈی۔ ج۔ بُرْمٌ و بُرْمٌ۔

الْبُرْمُ: بد اخلاق لوگ۔
الْبُرْمُ: پتھری۔ ج۔ اَبْرُمَةٌ۔
الْبُرْمُ: رتی پٹنے والا۔

الْبُرْمِیَّةُ وَالْبُرْمُ: دھاکا۔ ہر وہ چیز جو بی جائے۔
تی ہوئی رتی۔ التبریم۔ لشکر۔

التبریمة: سوراخ کرنے کا اوزار۔ برما۔
الجبرم: نکل۔ ج۔ تبرم۔
المُتَبْرِمُ: منع قضاء۔ مُتَبْرِمٌ: اشل فیصلہ۔
الجبرمیل: سب۔ ج۔ تبرمیل (جدید)
المُتَبْرِمُ: بزمائے۔ ج۔ تبرم (جدید)
بُرْمَةٌ: برس پٹنا۔
تَبْرِمٌ: برس پٹنا۔

الْبُرْمَةُ: وہ لمبی ٹوپی جو عرب میں پہنی جاتی تھی۔
وہ لباس جس کا کچھ حصہ ٹوپی کی جگہ کام دے۔

الْبُرْمَةُ: انگریزی ٹوپی۔ بیت (جدید)
الْبُرْمَةُ: مٹی کا برتن۔ ج۔ بُرْمَةُ۔
بِرْمَةٌ (س) بَرْمًا: بیمار کے بعد جسم کا اصلی حالت پر آنا۔ صفت (أَبْرَمٌ) (بِرْمًا) (بُرْمًا)۔
أَبْرَمٌ: دلیل لانا۔

الْبُرْمَةُ وَالْبُرْمَةُ: عرصہ۔ زمانے کا ایک حصہ۔
ج۔ بُرْمَةٌ و بُرْمَةٌ۔
الْبُرْمَةُ: ہندوؤں کی ایک ذات۔ مفرد (بُرْمَانٌ)

بُرْمَةٌ: الشَّيْءُ وَعَلَيْهِ وَعُقَّةٌ: دلیل قائم کرنا۔
تَبْرِمٌ: دلیل سے ثابت ہونا۔
الْبُرْمَانُ: دلیل۔ ج۔ بُرْمَانٌ۔
الْبُرْمُوزُ: چو کھٹا (جدید) اس کے لیے فصیح لفظ کفصاف اور اطوار ہے۔

الْبُرْمُوزُ وَالْبُرْمُوزُ: ایک قسم کی گھاس جو محض بادل ہی سے سرسبز ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے مثل ہے "أَشْجُرٌ مِنْ بُرْمُوزَةٍ" یعنی وہ توڑی چیز کا بھی شکر یہ ادا کرتا ہے۔

بُرْمَانٌ (ن) بُرْمَانٌ و بُرْمَانٌ: الثَّقَاةُ: اُدنی کی ناک میں حلقہ ڈالنا۔
الْبُرْمَةُ: حلقہ (خواہ لنگن ہو یا بلبل یا یا زنبق) جو بُرْمُوزِ و بُرْمَاتِ و بُرْمَانِ و بُرْمَانِ کہا جاتا ہے "أَعْظَمَةُ الدُّنْيَا بُرْمَانٌ" یعنی دنیا اس کے ہاتھ میں آگئی ہے۔
بُرْمُوزِي (ض) بُرْمُوزِي و بُرْمُوزِي: السَّهْمُ أَوْ الْقَلَمُ: تیرا قلم تراشا۔ صفت مفعول (بُرْمُوزِي و مَبْرُوزِي)۔
الشَّخْصُ: ڈپلا کرنا۔ کمزور کرنا۔

بَارْمِي: الْكَرْجَلُ: آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔
أَمْرَةٌ: فراق کی شرط پر صلح کرنا۔
أَبْرُمِي: مٹی لگانا۔

تَبْرِمًا: یاہام آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔
تَبْرِمِي: لَمْعُوقَةٌ: بھلائی کے درپے ہونا۔
أَبْرُمِي: تراشا جانا۔ لُءُ: پیش آنا۔
أَبْرُمِي: مٹی۔

النَّارِي: قاپہا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمِ حسی میں سے ہے۔ تیرا کارا ترشنے والا۔ اسمِ عرب میں سے "أَعْطَى الْقَوْمَ بَارْمِيًا" کمان تراشنے

والے کو دو۔ یعنی کام اس شخص کے سپرد کرو جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔

الْبُرْمَةُ وَالْبُرْمَةُ: تراشہ۔ جھیلن۔
الْبُرْمَةُ: مخلوق۔ ج۔ بُرْمَانٌ۔
الْبُرْمَةُ وَالْبُرْمَةُ: سر کی ہموٹی جو کھسی کرتے وقت گرے۔

الْبُرْمَةُ وَالْبُرْمَةُ وَالْبُرْمَةُ: چاقو۔ تراشنے کا اوزار۔
بُرْمَةٌ (ن) بُرْمَانٌ و بُرْمَانٌ: چھیننا۔ غالب ہونا۔
الشَّيْءُ مِنْهُ: زبردستی لے لینا۔

إِبْرَمٌ: زبردستی چھین لینا۔
الْبُرْمُ: کمان یا روٹی کے کپڑے۔ ہتھیار۔ ج۔ بُرْمُوزُ۔
الْبُرْمَةُ: کپڑے۔ ہتھیار۔ بیت۔

الْبُرْمَانُ: پارچہ فروش۔
الْبُرْمَانُ: پارچہ فروشی۔
الْبُرْمَانُ: پاسپورٹ (جدید) پروانہ راجداری اس کے لیے فصیح لفظ الجَوَازُ ہے۔
بُرْمُوزُ: تیز چلنا۔ سخت ہانکنا۔ ہانکنا۔ سخت حرکت کرنا۔

الْبُرْمَانُ: بھٹی کے سرے پر لوہے کی جو دار صلاح۔
بُرْمَانٌ (ن) بُرْمَانٌ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔
عَلَيْهِ فُلَانًا: بھلا کرنا۔ آسان۔ برا سمجھنا۔
بُرْمَانًا: آراستہ کرنا۔ خوبصورت بنانا۔
بَارْمَانًا: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔
تَبْرِمًا: یاہام فخر کرنا۔

بُرْمَانٌ (س) بُرْمَانًا: نکلے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پیٹھ والا ہونا۔ صفت (أَبْرَمٌ) مؤنث (بُرْمَانٌ) ج۔ بُرْمَانٌ۔

بُرْمَانٌ (ف) بُرْمَانًا: ظہورُ بِالْعَصَاءِ: بلا مٹی سے پست پر مارنا۔ فُلَانًا: زسوار کرنا۔
تَبْرِمًا: عَنِ الْأَمْرِ: پیچھے ہٹنا۔ نکلے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پیٹھ والے کی طرح چلنا یا بیٹھنا۔
تَبْرِمًا: حَتَّ الْمَرْأَةُ: بڑے سرین والی ہونا۔
بُرْمَانًا: فُرُوخًا: فروختی کرنا۔

بُرْمَانٌ (ض) بُرْمَانًا: الْحَبْرُوبُ: بونا۔ بیج بھیشا۔
و بُرْمَانٌ: مَسَالَةٌ: تَبْرِمًا: تَبْرِمًا: تَبْرِمًا:

بمرا۔ کتے ہیں "فَلَا نَبْرَزُ كَلَامَهُ وَتَوْبَلُهُ"
 فلاں نے اپنی تنگدلی میں تنگ مریج ملا۔
 النَّبْرُزُ - ج - خم - واحد (بِزْرَة) ج نَبْرُوز - مسالہ -
 ج انبواز - ج آواز کہتے ہیں "ويفعل لا يتخفى
 عليه آتاء يروك" یعنی مجھ جیسے پر تمہاری نہیں
 پوشیدہ نہیں رہ سکتیں - النَّبْرُزُ - ریمت -
 الْمَعْرَافَةُ النَّبْرُزَاءُ بہت اولاد والی عورت -
 النَّبْرُزَاءُ بیچ اور مسالہ کا بیٹے والا -
 النَّبْرُزُ - سئل کا بے - دھوبی کا تختہ (___
 والنَّبْرُزُ) دھوبی کی موگری -
 النَّبْرُزَاءُ : باز پالنے والا - کاشکار - ج بیازرة
 (مغرب)
 بُزْعُ (ک) بَزْرَاعَةٌ - الْفَلَامُ : خوش طبع کی اور
 چست ہونا - صفت (بَزْرِعُ) مؤنث (بَزْرِيْعَةٌ)
 تَبْرَعُ - الْفَلَامُ : چست و چمڑیلا ہونا - الشُّرُ :
 شروقتہ کا مہر -
 النَّبْرَاعُ : بغیر جھک کے منگھو کرنے والا لڑکا
 والنَّبْرَاعُ (من الْفُلْمَانِ) : تیز خاطر - جرب
 زبان لڑکا - النَّبْرَاعُ : شریف آدمی -
 بَزْرَعَتْ (ن) بَزْرَعًا وَبَزْرَعًا - الشَّمْسُ : طلوع
 ہونا - بَزْرَعُ الْحَاجِمِ : نشتر کا ذمہ : خون بہانا -
 الْبَزْرَعُ : النَّبْرَاعُ : فصل ہمار کا شروع ہونا -
 لَجُزْمٌ (ب) بَزْرَاعٌ : طلوع ہونے والے ستارے -
 الْمَبْرَعُ : بَشْرُ
 بَزْرَقٌ (ن) بَزْرَقًا : تھوکتا ___ الْأَوْضُ : بونا -
 النَّبْرَاقُ : تھوک -
 النَّبْرَاقُ : ایک قسم کا گھونٹا - واحد بَزْرَاقَةٌ
 بَزْرَلٌ (ن) بَزْرَلًا وَبَزْرَلٌ - الشُّنْ : سوراخ کرنا -
 الشُّرَابُ : صاف کرنا - بَزْرَلُ الْأَمْرِ : کسی کام کو کر
 گزرا - رائے : کوئی نئی رائے پیش کرنا - کسی
 رائے پر جرم جانا -
 بَزْرَلٌ (ن) بَزْرَلًا : التَّحْمِيْرُ : اونٹ کا جوان ہونا
 نَابُ النَّبْرِيْرِ : کھلی کا لگانا - صفت مذکر و
 مؤنث (بازِلٌ) ج بَوَازِلٌ وَبَزْرَلٌ وَبَزْرَلٌ
 تَبْرَلٌ وَابْتَبْرَلٌ : سوراخ ہونا -
 تَبْرَلٌ وَابْتَبْرَلٌ : الْخَمْرُ : شراب کے برتن
 میں سوراخ کرنا ___ الْحَسَدُ : جسم سے خون
 نکلتا

السَّقَاءُ : منگھ کا کھینا ___
 اِسْتَبْرَلٌ : الشُّنْ : کھولنا ___ الْخَمْرُ :
 صاف کرنا -
 النَّبْرَلُ - تختی -
 النَّبْرَلُ : ایک قسم کا پھاڑی بکرا -
 النَّبْرَالُ : ہما - سوراخ کرنے کا اوزار -
 النَّبْرَالُ : شراب کے منگھ کا سوراخ -
 النَّبْرَالُ : اونٹ کی کچلیوں کا اونٹ - تجربہ کار
 مرد - کتے ہیں "وَمَهِي بِأَشْهَبِ بَازِلٍ" وہ شوہار
 معاملہ میں پھنس گیا -
 النَّبْرَالَةُ : بڑی مصیبت - عمدہ رائے - کہا جاتا ہے
 "إِمْرَأَةٌ بَزْلَاءُ الزَّوْاِي" عمدہ رائے والی عورت -
 "وَحُطْلَةُ بَزْلَاءٍ" : صاف دواغ طریق کار -
 النَّبْرَالُ : شراب صاف کرنے کا آلہ - سوراخ
 کرنے کا اوزار -
 زَجَلٌ (ب) بَزْرَالَةٌ وَبَزْرَالَةٌ : مرو کو تہ قامت -
 بَزْرَمٌ (ن) بَزْرَمًا - عَلَيْهِ : لگے دانوں سے کاٹنا
 بِالشُّنْ : أَهْمَانًا ___ فَلَا نَبْرَزُ : چھین
 لینا ___ النَّثَاقَةُ : انگوٹھے اور شادت کی انگلی
 سے دوہنا ___ وَرَمِ الْقَوْمِ : کمان کے تانت کو
 انگوٹھے اور شادت کی انگلی سے پکڑ کر تیر جانا -
 النَّبْرِمُ : ساگ یا ترکاری وغیرہ کا مٹھا ہانڈھنے
 کے لیے پتے یا چھلکا -
 الْمَبْرِمُ : دانت -
 بَزْرَمٌ بَزْرَمَةً : تکبر کرنا -
 بَزْرَا (ن) بَزْرَا - عَلَيْهِ : دراز دستی کرنا (بَزْرَاهُ
 وَبَزْرَاهُ وَبَزْرِيْ بِهِ) غالب آنا (بَزْرَا وَبَزْرِيْ بَزْرَا
 وَبَزْرِيْ بَزْرَاهُ) گلے ہوئے سینے اور دھنسی ہوئی
 پیٹھ والا ہونا صفت (بَزْرِيْ) مؤنث بَزْرَاؤُ -
 تَبْرَازِيْ : باز کے مشابہ ہونا - سرین اٹھا کر ہلاتے
 ہوئے چلنا -
 النَّبْرُو : شل و نظیر -
 النَّبْرِيُّ : دودھ پینا بیٹہ - کہا جاتا ہے "هُوَ بَزْرِيْنٌ"
 وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے -
 النَّبْرَاءُ : ٹیگ -
 النَّبْرَاوُ النَّبْرَايُ : باز -
 بَشٌ (ن) بَشًا وَبَشًا - الْأَيْلُ : آہستہ آہستہ
 ہانکتا اور بس بس کرنا - "بَشُ الْمَالِ فِي الْبِلَادِ"

تک میں مال کا پھیلانا - "بَشُ السُّوْبِقِ" : گھی
 یا زیتون کے تیل میں ستولانا ___ الْقَوْمُ عَتَلَةٌ
 دھنکارنا - "وَأَبَشُ بِالنَّثَاقَةِ" : روہنے کے لیے
 چکارنا -
 اِنْبَشٌ : زمین پر پانی کا بہنا - الگ ہونا -
 الْبَشُ وَالْبِشُ - بلا - کوشش - ج بَسَّاسُ
 الْبَيْبِيسُ : تھوڑا کھانا -
 الْبَيْبِيسَةُ : گھی یا زیتون کے تیل میں ملا ہوا
 ستویا آنا -
 الْبَيْسُوسُ : اونٹنی جو بغیر بس بس کے ہوئے
 دودھ دے - ج بَيْسُوسٌ -
 بَشٌ بَشٌ وَبِشٌ بِشٌ : بکریوں اونٹوں بلیوں
 کے بلانے یا ڈانٹنے کے لیے کلمہ -
 بَشْبِشٌ : بِالْعَقْمِ أَوْ الْأَيْلِ : بس بس کہہ کے
 بلانا ___ بَهٌ : کسی سے بس کرنا -
 الْبَيْبِيسُ : بیابان بے گھاس پانی والی زمین -
 ج بَسَّاسٌ - تَرَهَاتٌ الْبَيْبِيسِ وَالشَّرَهَاتُ
 الْبَيْبِيسِ : جھوٹی اور باطل باتیں -
 الْبَيْسْتَانُ : باغ - ج بَسَاتِيْنٌ - (جدید)
 الْبَيْسْتَانِيْ : باغ والا - یا غرابان - الْبَيْسْتَانِيْ وَنَ
 الْبَيْبَاتُ : لگائے ہوئے پودے -
 بَسْتٌ (ن) بَشْتًا - چلنا - کشادہ قدم رکھنا -
 دوڑنے میں سبقت کرنا -
 النَّبْسْتَقُ : خادم -
 النَّبْسُوْقَةُ : مٹی کا مرنجان -
 بَسْرَه (ن) بَسْرَا - جلدی کرنا - مغلوب کرنا
 ___ وَابْتَسْرَ الْقَرْحَةَ : نچوڑ کر ہانڈھنا ___
 الْحَاجَةُ : بے وقت طلب کرنا ___ النَّخْلَةُ :
 درخت خرما میں گمل از وقت پیوند لگانا ___
 التَّبَاتُ : ترگھاس چرانا - وَابْتَسْرَ النَّخْلُ : گدر
 کھجور والا ہونا -
 بَسْرٌ (ن) بَسْرًا وَبَسْرًا : ترش رو ہونا -
 صفت (بَابِسٌ) اور اسی وجہ سے شیر کو (بَسْرُو) کہا جاتا ہے -
 بَسْرٌ وَابْتَسْرٌ : الْحَاجَةُ : بے وقت طلب
 کرنا - ابْتَسْرَ بِالْأَمْرِ : شروع کرنا ___ الشُّنْ
 : تازہ لینا - ابْتَسْرَ لَوْثُهُ : بدل جانا -
 النَّبْسُرُ : ٹھنڈا پانی - کہا جاتا ہے "وَجْهٌ بَسْرٌ"

تجوری چڑھا ہوا چہرہ۔

البسْر: تازہ چیز۔ گدر گجور۔ واحد بَسْرَةٌ ج بَسْرَاتٍ۔ البسْرَةُ: طلوع کے وقت کا آفتاب۔

البسْمُورج بَوَاسِیْتٌ: بواہر کی تھاری۔

المَبْسُورُ: بواہر کی تھاری والا۔

المُبَسِّرَات: ہوائیں جن کا چلنا بارش کی علامت ہو۔

بَسَطَ (ن) بَسَطًا: الفَرْبَ: پھیلاتا۔

الزُّجْلُ کسی کا دل بوجھانا۔ البَسَطُ: ہاتھ

کشاہ کرنا۔ الفَعْرُ: عذر ظاہر کرنا یا قبول

کرنا۔ المَمَكَانُ القَوْمُ: وسیع ہونا۔

فَلَانًا عَلَیْهِ: فعلیات دینا۔ السَّیْفُ:

گھوڑا سوتتا۔

بَسَطَ (ک) بَسَاطَةً: بسط ہونا۔ بَسَطًا: بڑھانا ہونا۔

بَسَطَ: الفَرْبَ: پھیلاتا۔

بَسَاطَةً: کسی سے کھل کر باتیں کرنا۔

تَبَسَّطَ وَابْتَسَطَ: پھیلتا۔ دراز ہونا۔ بے

کلف ہو جانا۔ سیر و تفریح کرنا۔

البیاضُ: نا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں

سے ہے۔

البیاضَةُ: دور کی مسافت۔

بَسَطَ (بَسَطًا وَبَسَطًا): کھلا ہوا ہاتھ۔

البَسَطَةُ: وسعت۔ وسع۔ کمال۔

بَسَطَةُ العَیْشِ: فراخی زندگی۔

البَسَاطُ: چھوٹا۔ فرش۔ ج بَسَطُ۔

البَسَاطُ: کشاہ زمین۔

البَسِیْطُ: مفرد۔ کشاہ زمین جہر مذاق۔ بسینط

الوجه: کشاہ رو۔ جس کھ۔

بَسِیْطًا البَسِیْطُ: فیاض۔ سخی۔ ج بَسِیْطَاءُ۔

البَسِیْطَةُ: زمین۔ زمین کا ہوا حصہ۔

بَسَقَ (ن) بَسَقًا: تھوکتا۔

بَسَقَ (ن) بَسَقًا: التَّخَلُّ: لمبے تھے اور لمبی

ٹہنیوں والا ہونا۔ صفت (بایسق)۔

أَصْحَابُهُ وَعلی أصحابہ: فعلیات میں بڑھ

جانا۔ فی علمہ: باہر ہونا۔

بَسَقَهُ: لباہر کرنا۔

تَبَسَّقَ: لباہر ہونا۔

البیاضَةُ: مؤنث۔ سفید صاف رنگ کا پادل۔

مصعبت۔ ج بَوَاسِیْتٌ۔ وَبَوَاسِیْتِ السَّحَابِ:

ابتدائی پادل۔

بَسَلُ (ک) بَسَلًا وَبَسَلًا: ہلکا ہونا صفت

(بَسُولٌ وَبَاسِلٌ ج بَسَلٌ وَبَسَلًا وَبَسَلًا):

بَسَلُ (ن) بَسُولًا: الوَجْلُ: خُصْمٌ یا ہمداری

سے تجوری چڑھانا۔ صفت (بَسَلٌ وَبَسَلٌ)۔

التَّبِیْذُ: تمیز کا تیز ہونا۔ اللُّحْمُ: گوشت کا

پر پرواز ہونا۔

بَسَلَةٌ (ن) بَسَلًا: علامت کرنا۔ حلال کرنا۔ جائز

کرنا۔ عَنِ حَاجَتِهِ: منع کرنا۔ روکنا۔

أَبَسَلَةٌ: ہلاکت کے لیے جموڑنا۔ رہن رکھنا

اللَّهُ الشَّيْءُ: حرام کرنا۔ هُ الْكُذْبُ:

چس کرنا أَبَسَلْتُ نَفْسِي لِلْعَمَلِ: مرے کے لیے

تیار ہو جانا۔

بَسَلَهُ: ناپسندیدہ بنا دینا (بَسَلْتُ وَابْتَسَلْتُ نَفْسِي

لِلْعَمَلِ: اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دینا۔

بَسَلَةٌ: لڑائی میں حملہ کرنا۔

بَسَلٌ: خُصْمٌ یا ہمداری سے تجوری چڑھانا۔

ابْتَسَلْتُ: مرے یا مارے کے لیے جنگ میں

کو پڑنا۔

البَسَلُ: سخی۔ حلال۔ حرام (واحد جمع مذکر و

مؤنث مساوی ہیں) کہا جاتا ہے۔ "هَذَا بَسَلٌ

عَلَيْكَ" یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور کہا جاتا

ہے "بَسَلًا" اس کے لیے خرابی ہو۔

الباسِلُ: شیر۔ ج بَوَاسِیْلُ۔ اور کہا جاتا ہے "يَوْمٌ

بَاسِلٌ" سخت دن۔ "وَغَضِبَ بَاسِلٌ" تیز غصہ۔

البَسُولُ: شیر۔

البَسَالَةُ: دلیری۔ ہمداری۔ کراہت۔

الْبَسِیْلِيُّ: ایک قسم کی نباتات۔

البَسِیْلُ: حرام۔ کمرہ چہرہ والا۔ برتن میں

شراب کا تیز۔

البَسِیْلَةُ: سخی۔ کسی چیز کا تیز۔

البَسَلَةُ: افسوس کرنے والے کی اجرت۔

بَسَمَ (ض) بَسَمًا وَبَسَمًا: التَّبَسُّمُ: مسکراتا۔

صفت (بَاسِمٌ وَبَسِيمٌ)

العَبَسِيمُ: وراثت۔ ج عَبَسِيمٌ۔

البَسَامُ: العَبَسِيمُ: ہمت مسکراتے والا۔

بَسَمَلٌ: ہمت مسکراتا۔

أَبَسَنَ: خوش رنگ و خوش وضع ہونا۔

البیاضَةُ: کارنگیوں کے آلات۔ مل کا پھارج

بایسن۔

بَشَّ (س) بَشًّا وَبَشَاشَةً: جس کھ ہونا۔ کشاہ

رو ہونا۔ للبَشِي: کسی چیز کو دیکھ کر بشت

ظاہر کرنا۔ بالصَّلْبِي: دوست کو دیکھ کر

خوش ہونا۔ صفت (بَشَّ وَبَاشَّ وَبَشَّوْشَ

وَبَشَاشٌ)

أَبَسَّتِ: الأَرْضُ: نباتات کا آپس میں گتھ

جانا۔

بَشَّشَ: الرَّجُلُ: بشت ظاہر کرنا۔

تَبَشَّشَ: پہ: کسی سے کشاہ روئی سے پیش

آنا۔

البَشْتِخَةُ: چھوٹا صندوق۔

بَشَّرَ (ن) بَشْرًا: العَجَلَةُ: چھڑا پھیل دینا

الشَّارِبُ: موٹھ موٹھ کر کھال ظاہر کر

دینا۔ العَجْرَاءُ الأَرْضُ: مٹی کا سب کچھ

کہاجانا۔

بَشَّرَ (ض) وَبَشَّرَ (س) وَابَشَّرَ: ابَشَّرَ: ابَشَّرَ

پہ: خوش ہونا۔ ابَشَّرَتِ الأَرْضُ: اکھوا نکالنا۔

کہا جاتا ہے۔ "بَشَّرَنِي بِوَجْهِ حَسَنِ" وہ مجھ

سے کشاہ روئی سے ملا۔

بَشَّرَهُ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔

أَبَشَّرَ: فَلَانًا: خوشخبری دینا۔ خوش ہونا۔

قرآن میں ہے ﴿وَابَشِّرْهُ بِالْحَبَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ

تُوَعَدُونَ﴾ الأَمْرُ وَجَهَةٌ: حسین پُر

رواق بنا دینا۔ الشَّيْءُ: پھیلتا۔

بَاشَرَهُ: الأَمْرُ: کسی کام کو خود کرنا۔ بَاشَرَهُ

التَّوَعُّمُ: نعمتوں میں پلانا۔ العَجْرَاءُ: جمل

کرنا۔

تَبَاشَرُوا: بِالْأَمْرِ: ایک دوسرے کو خوش

خبری دینا۔

البَشْرُ: چہرہ کی رونق۔ کشاہ روئی۔

البَشِيرُ: خوش خبری دینے والا۔ ج بَشِيرَاءُ۔

البَشَارَةُ: حسن و جمال۔

البَشَارَةُ: کمال کا تراشہ۔ یہ ہے جو خوشخبری

دینے والے کو دیا جائے۔

أَبَشَارَةُ: خوشخبری۔ ج بَشَارَاتٌ وَبَشَائِرٌ۔

الباصِرَة: آنکھ - ج بواصر - کتے ہیں "خیر
العشاء بواصرہ" بہترین کھانا وہ ہے جو تاریکی
سے پہلے کھالیا جائے۔

الباصر: چھوٹا گول بالان - ج بواصر -
البصر: کنارہ - روٹی - جمال - بصر کل شیء:
موٹائی - حدیث میں ہے "بصر کل مساء
میسرة تخمسائة عام" ہر آسمان کی موٹائی
پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ہے۔

البصر - نرم سفید پتھر
المنبصر والمنبصرة: واضح روشن دلیل -
الذبصر: نگہبان - کہا جاتا ہے "رئیت علی
بشقی منبصر" میں نے اپنے باغ کے لیے
ایک نگہبان مقرر کیا۔

بضعة (ف) بضعاً: جمع کرنا _____ الماء:
پانی بہنا بار بار۔

البضع: رات کا کچھ حصہ -
البضع: بے وقوف - انگشت شہادت اور بیچ
والی انگلی کے درمیان کا فاصلہ -

البصیع: بچہ جو جسم سے نکل رہا ہو - ج
بضع

الانضع: بے وقوف - اس کو تاکید کے موقع
پر بھی استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں "اخذت
حقنی اجمع انضع" مؤنث (بضعاء) ج
ابضعون وبضع _____ اور اس کو اجمع پر
مقدم نہیں کرتے۔

بضع (ان) بضعاً: توکانا _____ الشاة:
حاملہ بکری کو دوہنا۔

البصاق: تھوک - اور جب تک منہ میں ہو
اس کو بقیہ کہتے ہیں۔

البضقة: بلند سنگلاخ زمین - ج بصاق -
بضلة وبضلة: من ثیابہ: بنگار کا -
بضل - القشور: چھلکے کا موٹا ہونا۔

البصل: پیاز - واحد بصلۃ - البصلة: بوسے کا
خود اور اسی سے ہے "خبر جواکانہم الاصل
وعلی زؤوسہم البصل" وہ لوگ نظر کو پاک
ڈسنے والے ساتپ ہیں اور ان کے سروں پر خود
ہیں۔ اس قول میں اصل: جمع اصلۃ کی ہے جو
ایک قسم کا ہریلا سا پ ہے۔

کونٹ لگانا۔

البصاصة: آنکھ۔

البصینص: چمک - کھٹی - اور اسی سے ہے
"أفلت له بصینص"
بصینص بصینصۃ: بمعنی بضعص - () _____
وتبصینص، الکلب: ڈم بلانا _____ فلان:
چاپلوسی کرنا۔

بصیر (ک) بصیر - (س) بصیر او بصارة وہ وہ:
جاننا - دیکھنا۔
بصیر (ن) بصیر الشئ: کاٹنا۔
بصیرۃ الأثر: پانچواں - معلوم کرنا - وبصیر:
بصر میں آنا _____ الجرو: بچے کا آنکھیں کھولنا۔
باصیر الشئ: دور سے جھانک کر دیکھنا - دیکھنے
میں مقابلہ کرنا۔

ابصیرہ: دیکھنا - بیانا بیانا _____ الزجیل: بصرہ
میں آنا ابصر الطریق: واضح و نمایاں ہونا۔
تبصیر: الشئ: غور سے دیکھنا _____ فی
الشئ: سوچنا غور کرنا۔
تبصروا: کسی چیز کو پہلے دیکھ لینے میں مقابلہ
کرنا۔

استبصر - الأثر: ظاہر ہونا _____ الأثر:
ظاہر کرنا - اچھی طرح دیکھنا _____ فینہ: سوچنا۔
غور کرنا۔

البصر: دیکھنے کی قوت - آنکھ - علم - ج ابصار
_____ کہا جاتا ہے "آیتہ بین سمع الأرض
وبصیرھا" میں اس کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ
کوئی نہیں تھا صرف زمین ہی دیکھنے والی سننے والی
تھی۔

البصيرة: ایک شہر کا نام جو باہم لے چلے
دریا سے دو جہل و فرات کے مغربی کنارہ پر واقع ہے۔
البصیران: بصرہ و کوفہ - والبصيرة: سخت
زمین - لیس دار مٹی جس میں نکلریاں بھی ہوں - ج
بصار۔

البصير: دانہ - بنا - ج بصیراء۔
البصيرة: عقل - زیرکی - دانائی - حیرت - شاہد -
حجت - کہا جاتا ہے "خبر ارحہ بصیرۃ علیہ" اس
کے اعضاء اس کے اوپر گواہ ہیں - وفقراسة ذات
بصيرة: سچی فراست۔

بشاق الوجہ: چہرہ کی خیریاں - بشاق الصبح:
آغاز صبح۔

البشاق: کینہ آوری -
البشر: انسان (مذکر مؤنث واحد جمع) ابو
البشر: حضرت آدم نبی و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
کنیت۔

البشورة: کھال کا اوپر کا حصہ ساگ گھاس - ج
بشر۔

التباشیر: خوش خبری - ہر چیز کی ابتداء۔
البشوی: خوشخبری۔

البشیرات: بارش کی امید دلانے والی
ہوا میں۔

بشع (س) بشعاً وبشاعة الشئ: بدر مزہ
ہونا _____ المزغ: زشت رو ہونا _____
فلان بالآخر: حقیقت میں ہونا۔

تبشع: بے مزہ ہونا بدر صورت ہونا۔
تایندی کی ظاہر کرنا۔

استبشعہ: بے مزہ سمجھنا۔
بشقة (ض) وبشقة (س) بشقاً بالفضاء:
لاحمی سے مارنا۔

البشاق: ایک شکاری پرندہ - ج بواشق
بشک (ان ض) بشکاً: جلدی کرنا - الخبیر:
گھڑا _____ الثوب: دور دور سینا _____ فی
عقلہ: بڑے طریقے سے کرنا۔

إبتشک: جھوٹ بولنا _____ الكلام: گھڑ
لینا۔

البشاک: بڑا چھوٹا۔
بشیم (س) بشیماً - من الطعام: بدرہمی ہونا
_____ من الشئ: آکا جانا - صفت (بشیم)

البشام: ایک خوشبو دار درخت کا نام جس کی
کڑی سے خلال بناتے ہیں - واحد اس کا بشامة
ہے اور دو فروش اس کے بیج کو حب البشام
کہتے ہیں۔

بش (ض) بصیرصا و بصا: چمکانا - روشن ہونا
_____ العاء: رتنا - کہا جاتا ہے "بش لین
بشیر" اس نے مجھے تھوڑا سا۔

بضعص: الجرو: بچے کا آنکھیں کھولنا
_____ الأرض: اکلوا لکنا _____ الشحرة:
بشیرہ: سچی فراست۔

بَضِّلُ الْفَارِ: جنگلی پياز۔ عوام اس کو بَضَيْلَةً کہتے ہیں۔

بَضْم (ن) بَضْمًا۔ الْقَمَاشُ: سامان پر علامت لگانا۔

البَضْمُ: خضر اور بھر کے درمیان کا فاصلہ۔ ثَوْبٌ ذُو بَضْمٍ: موٹا غف کپڑا۔

رَجُلٌ ذُو بَضْمٍ: موٹا مرد۔ البَضْمَةُ: علامت۔

البَضَانُ وَالبِضَانُ: ماہِ رَجَبِ الْآخِرِ حِ بَضَائِنَاتٍ وَأَبْنَسَةَ۔

بِضَا (ن) بَضْوًا۔ غَرِيمَةٌ: قرضدار سے سب کچھ لے لینا۔

البِضْوَةُ: چنگاری۔ الْاِثَارَةُ۔ بَضٌّ (ض۔س) بِضَاضَةٌ وَ بَضْوَةٌ:

موٹاپے کے ساتھ پتلے اور نرم چمڑے والا ہونا۔ صفت (بَضٌّ وَبَاضٌ وَبِضِيضٌ) مَوْتٌ بَضَّةٌ وَبَاضَةٌ وَبِضِيضَةٌ۔

بَضٌّ (ض) بِضًا وَبِضْوًا وَبِضِيضًا۔ الْمَاءُ: تھوڑا تھوڑا ہونا۔ الْحَجَّزُ: پانی

رسانا خیل کے لیے کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَا يَبِضُّ حَجَّزَهُ" یعنی فلاں کے خیر کو حاصل نہیں کیا جا

سکتا۔ الْعَيْنُ: آنسو نکلنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَا يَبِضُّ عَيْنَهُ" فلاں کی آنکھوں

سے آنسو نہیں نکلتا۔ یعنی وہ مصیبتوں پر مبر کرنے والا ہے۔ "أَوْتَارَ الْعُودُ" بجانے

کے لیے چھڑنا۔ لُةٌ: دیتا۔

بَضْفًا وَبِضَاضَةً: تھوڑا دیتا یا تھوڑا پانی دیتا۔

أَبِضُّ لُةٌ: تھوڑی سی چیز دیتا۔ بَضْفٌ بَضْفِيضًا: ناز و نعمت کی زندگی بسر

کرتا۔ ابْتَضَّ الْقَوْمُ: ساری قوم کو جا کر دیتا۔ تَبِضُّضٌ: فَلَانًا: سب کچھ لے لینا۔ حَقَّةٌ

مِنْ فَلَانٍ: تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرتا۔ بِنْتٌ (بِضْوَضٌ): کم پانی والا کنواں۔ حِ

بِضَاضٌ۔ البِضْفُ وَالبِضَاضَةُ: تھوڑا پانی۔

البِضُّ: موٹائی کے ساتھ نرم جسم اور پتلے کمال والا۔ مَوْتٌ بَضَّةٌ۔ البِضُّ وَالبِضَّةُ: کھٹا

دودھ۔ البِضِيضَةُ: جو کچھ کسی کے قبضہ میں ہو

_____ کہا جاتا ہے "أَخْرَجْتُ لَهُ بِضِيضِي" میں نے اپنی تمام مملوکہ چیزیں اسے دیدیں۔

البِضْوَةُ: رائیگاں۔ اور اسی سے ہے۔ "ذَهَبَ ذَمُّهُ بِضْرًا وَبِضْرًا": اس کا خون

رائیگاں گیا۔ بَضْعٌ (ف) بَضْعًا وَبِضْعٌ: الشَّيْءُ: کاتنا۔

بِضْعٌ (ف) بِضْعًا: الْكَلَامُ: سمجھنا _____ الْكَلَامُ: واضح ہونا _____ مِنْ فَلَانٍ: آگیا جانا۔

تَنَكَّرَ: دل ہونا۔ ابْتَضَعَهُ: الْكَلَامُ: واضح طور سے بیان کرتا۔

أَبْضَعُ الشَّيْءُ: سرمایہ بنانا _____ الْمَرْأَةُ: نکاح کرتا۔ الْمَاءُ فَلَانًا: سیراب کرتا۔

تَبِضَّعَ وَاسْتَبِضَّعَ: سرمایہ لینا _____ الشَّيْءُ: سرمایہ بنانا۔ تَبِضَّعَ الْعَرَقُ: لہجہ کا

تھوڑا تھوڑا ہونا۔ اسْتَبِضَّعَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ: کسی کے لیے سرمایہ بنانا۔

ابْتِضَّعَ: کھٹا۔ حیرا جانا۔ شگاف دیا جانا۔ بَاضِعٌ مَبَاضِعَةٌ وَبِضَاعًا۔ الْمَرْأَةُ: جماع

کرتا۔ الْبَاضِعُ: لوگوں کے سامان کو اٹھانے والا

شمشیر بڑاں۔ الْمَبِضَّعُ: نشتر۔ حِ مَبَاضِعُ۔

أَلَةُ بَضْعٍ مِنَ الرَّجَالِ: لاغز۔ البِضْعَةُ وَالبِضْعَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔ حِ بَضْعٌ

وَ بَضْعٌ وَبِضَاعٌ وَبِضَاعَاتٌ۔ البِضْعُ وَالبِضْعُ: رات کا کچھ حصہ۔ تین

سے نو تک کی تعداد۔ کہا جاتا ہے "بِضْعٌ مِثْنَيْنِ وَبِضْعٌ عَشْرَةٌ مِنَ النِّسَاءِ وَبِضْعٌ وَعَشْرُونَ

إِمْرَأَةً" اور مذکر کے لیے بِضْعَةٌ عَشْرٌ مِنَ الرَّجَالِ وَبِضْعَةٌ وَعَشْرُونَ اور بضع کی تقدیم

واجب ہے اس لیے عَشْرُونَ وَبِضْعٌ: کسا جائز ہوں۔

البِضْعُ: گوشت۔ بَزِيرَةٌ۔

البِضَاعَةُ: سرمایہ۔ پونجی۔ حِ بَضَائِعُ۔ بَضْمٌ (ن) بَضْمًا۔ الْوَزْعُ: موٹے دانہ والا

ہوتا۔ البِضْمُ: خوشہ۔ لَسٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ كَرِيمٌ البِضْمُ" وہ کریم النفس ہے۔

بَطَّ (ن) بَطًّا۔ النُّجْرَحُ: زخم کو چیرنا۔ شگاف کرتا۔

بَطَّطٌ: عاجز ہونا۔ تھکنا۔ البِطَّةُ: واحد (البِطَّةُ) بَطٌّ (ن) بَطًّا: دوبارہ دونوں کے

لئے حِ بَطُّوطٌ وَبِطَاطٌ۔ البِطَّةُ: بَطٌّ کے شکل کی شیشی۔

المِيطَّحُ مِيطَّطٌ وَالمِيطَّطَةُ: نشتر۔ شگاف دینے کا اوزار۔

البِطَّاطَا: آلو (جدید) بَطَّطُ: البِطُّ: آواز کرتا۔ پانی میں غوطہ لگانا

_____ الرَّجُلُ: کمزور رائے والا ہونا۔ بَطَّوْ (ك) بَطَّاءٌ وَبِطَاءٌ وَبَطَّوْءٌ وَابْطَاءٌ:

دیر کرتا۔ صفت (بِطِيٌّ) مَوْتٌ بِبِطِيَّةٍ حِ بِطَاءٌ أَبْطَأَ وَبَطَّأَ: عَلَيْهِ وَبِالْأَمْرِ: دیر کرتا۔ مَوخِر

کرتا۔ بَاطَاءَةٌ: ٹال مٹول کرتا۔

تَبَطَّأَ وَتَبَاطَأَ فِي سَبْرِهِ: بیچھے رہنا۔ اسْتَبِطَّأَهُ: دیر کرنے والا پانا۔ یا سمجھنا۔

الْمَبِطَّاءَةُ: باعث دیری۔ بَطَّحَهُ (ف) بَطَّحًا: بچھانا۔ مُدٌّ کے بل

گراتا۔ بَطَّحَ: البَيْتُ: شکر زنی بچھا کر ہموار کرتا۔

تَبَطَّحَ وَابْتَطَّحَ وَاسْتَبَطَّحَ: الْوَادِي: پھیلا۔ کشارہ ہونا۔ ابْتَطَّحَ الرَّجُلُ: مُدٌّ کے بل

گرتا۔ البِاطِحُ: نا۔ مُدٌّ کے بل گرنے والا۔

البِطَّاحُ حِ بَطَّاحٌ وَبِطَاحٌ وَالبِطَّاحَةُ حِ وَ (الأبْطَحُ حِ أَبْطَحٌ۔ وَالبِطَّاحَةُ حِ بَطَّاحٌ وَ (البِطَّاحُ): کشارہ ٹال جس میں ریت

اور چھوٹی ٹکڑیاں ہوں۔ البِطَّاحَةُ: تدرق۔ قامت۔ مسافت۔

البِطَّاحَةُ: خصلت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ بَطَّاحَةٌ صَدِيقٌ"

ہ وُلَّةٌ : بیٹ پر مارنا۔ بَطْنُ الْأَمْرِ : کسی معاملہ کی نہ کو پہنچانا۔ (بَطْنُونَ وَبَطْنَانَةٌ) بَطْنَانٌ وَمِنْهُ : کسی کے خواص میں سے ہونا۔
بَطْنٌ (س) بَطْنًا وَبَطْنٌ (ک) بَطْنَانَةٌ : بڑے بیٹ والا ہونا۔ صفت (بَطْنٌ) وَبَطْنِيٌّ وَمَبْنِيٌّ۔

بَطْنٌ بَطْنًا : جلائے درد شکم ہونا۔ صفت مَبْنِيٌّ۔

بَطْنٌ وَأَبْطَنٌ : القوب : استر لگانا۔ الدَّابَّةُ : ننگ کنا۔ أَبْطَنُ الشَّيْءِ : پوشیدہ کرنا۔
بَاطَنَةٌ : سرگوشی کرنا۔ دوستی کرنا۔
تَبَاطُنٌ : الْمَكَانُ : دُور ہونا۔

تَبَطَّنَ وَاسْتَبَطَّنَ : الشَّيْءُ : اندر داخل ہونا۔
الْأَمْرُ : معاملہ کی نہ معلوم کرنا۔

البطن : بیٹ۔ ہر چیز کا اندرونی حصہ۔ بَطْنٌ الْأَرْضِ : زمین کا پست حصہ۔ مِنْ الْقَوْمِ : گروہ جو قبیلہ سے کم اور عمارت سے زائد ہو۔ ج بَطْنُونَ وَأَبْطَنٌ وَبَطْنَانٌ کہا جاتا ہے "أَلْفَتِ الدَّجَاجَةَ ذَابِطِيهَا" یعنی مرغی نے انڈے دیچے۔ "وَصَاحَتْ عَصَا فِيرِ بَطْنِيهِ" یعنی وہ بھوکا ہوا۔

البطن : بیٹ کی بیماری۔
البطن : حریص جس کا نصب العین صرف بیٹ ہو۔

البطنة : ذہر۔
البطنة : زیادتی خوراک کی وجہ سے بہت زیادہ شکم پڑی۔

البطن ج ابطنة و بطن : ننگ، جس کو جانور کے بیٹ کے نیچے سے باندھتے ہیں۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کو گھوڑے پر کھینوں سے بچانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ "فَلَانَ عَرِيضُ الْبِطَانِ" فلاں غنی یا آسودہ حال ہے "وَالْتَقَّتْ حَلَقَتَا الْبِطَانِ" معاملہ ٹکٹیں ہو گیا اور مصیبت سخت ہو گئی۔

بَطْنَانَةٌ : القوب : کپڑے کا استر۔ الرَّجُلُ : اہل دعیال خاص لوگ۔ بھید۔ ج بَطْنَانٌ : راز دار۔

الباطن : اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے

عَلِيهِ : حملہ کرنا۔ ٹوٹ پڑنا۔ صفت (بَاطِشٌ وَبَطَاشٌ وَبَطِيشٌ) : کہا جاتا ہے "فَلَانَ بَطِيشٌ فِي الْعَلَمِ بِبَاعِ بَسِيطٍ" : یعنی فلاں علم کو بہت جلدی حاصل کر لیتا ہے۔
بَاطَشَةٌ : ایک دوسرے کو سختی سے پکڑنا یا حملہ کرنا۔

الْأَبْطَعُ : وہ شخص جس کے نیچے کے سامنے والے دانت گر گئے ہوں۔

البطاقة : خط، پرچہ، پرزہ۔ بَطَاقَةُ الْقَوْبِ : کانڈ کی وہ چٹ جس میں کپڑے کی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ج بَطَاقِيٌّ۔

بَطَلٌ (ن) بَطْلًا وَبَطْلُولًا وَبَطْلَانًا : فاسد ہونا۔ بیکار ہونا۔ باطل ہونا۔ صفت (بَاطِلٌ) : بَطَالَةٌ : فی کَلَامِهِ : تسخر کرنا۔

الفَاعِلُ مِنَ الْعَمَلِ : بیکار ہونا۔ صفت (بَطَالٌ)

بَطَلٌ (ک) بَطَالَةٌ وَبَطْلُولَةٌ : ذلیف ہونا، ہمدار ہونا۔ صفت (بَطَلٌ) ج أَبْطَالٌ : مؤنث بَطْلَةٌ۔ ج بَطَالَاتٌ۔

بَطْلَةٌ : باطل کرنا۔ بیکار کرنا۔
أَبْطَلٌ : نعو کام کرنا۔ صفت (مَبْطُولٌ) : الشَّيْءُ : ضائع کر دینا۔ باطل کرنا۔ الرَّجُلُ : تسخر کرنا۔

تَبَطَّلٌ : ہمدار بننا۔ بیکار رہنا۔ کہا جاتا ہے "تَبَطَّلُوا بَيْنَهُمْ" انہوں نے اپنے درمیان لغو اور باطل امور کئے۔

البطالة : بیماری۔ کام سے فراغت۔
البطالة : ہمداری۔

الباطل : نا حق۔ ج اباطیل : شیطان۔
جادوگر۔ ج بَطْلَةٌ۔

البطل : باطل۔ جموت۔ اور کہا جاتا ہے "ذَهَبَ دُمَةُ بَطْلًا" : اس کا خون رائیگں گیا۔

البطالات : لغویات۔ فضولیات۔
الأنطالة والأنطولة : باطل۔

البطم والبطم : بن۔ بن کا پھل۔
بَطْنٌ (ف) بَطْنُونَ وَبَطْنًا : پوشیدہ ہونا صفت (باطن)

بَطْنٌ (ن) بَطْنًا : الوادی : داخل ہونا

البطاح : ایک بیماری جو بخار سے پیدا ہوتی ہے اور برسام کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور اس سے ہے (البطاحی)

بَطْحَهُ (ف) بَطْحًا : چانا۔
أَبْطَحُ : بہت خربوزے والا ہونا۔

البطیخ : خربوزہ۔ خربوزہ کی تیل۔ واحد بَطِيخَةٌ۔

المَبْطُخَةُ : خربوزوں کی فالیز۔ ج مَبَاطِخٌ بَطْخَةٌ (ن ض) بَطْخًا : چیرنا۔ ڈھنگ رہنا۔ صفت مفعول (مَبْطُورٌ وَبَطِيورٌ)

بَطِيورٌ (س) بَطْورًا : زیادتی نعمت کی وجہ سے حیران ہونا۔ اترانا۔ الْحَقُّ : تکبر سے قبول نہ کرنا۔ الشَّيْءُ : ناپسند کرنا حالانکہ وہ چیز ناپسندیدگی کے قابل نہ ہو۔
البغمة : جالت یا تکبر سے تحیر سمجھنا اور ناگھری کرنا۔ صفت (بَطِرٌ)

أَبْطَرَةٌ : دہشت میں ڈالنا۔ ناگھری گزار بنانا کہتے ہیں "أَبْطَرَةٌ ذُرْعُهُ" : اس پر اس کی طاقت سے زیادہ لادویا۔ ذُرْعُهُ أَبْطَرَةٌ کی ضمیر مفعول سے بدل استعمال ہے۔

بَطْرًا : رائیگں۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ دُمَةُ بَطْرًا" : اس کا خون رائیگں گیا۔

بَطْرٌ : الدَّابَّةُ : جانور کا علاج کرنا۔ نعل بندی کرنا۔ صفت (مَبْطِرٌ وَبَطِيورٌ وَبِطَارٌ) ج بِيَاطِرُهُ۔

البطيرة : سالوتری کا پیشہ۔
البطيرور : زباں دراز۔ بہت چیخنے والا۔ مؤنث بطيرة۔

البطريشيل والبطرشمين : ایک قسم کا لہبا کپڑا جس کو کاہن ڈیوٹی کے وقت استعمال کرتا ہے۔

البطريق : رویوں کا جرنیل۔ ج بَطَارِيقٌ وَبِطَارِيقٌ وَبِطَارِقَةٌ۔
البطارق : لہبا۔

البطرك والبطريرك والبطرنيك : پادریوں کا سردار۔ عیسائیوں کے کسی گروہ کا مذہبی سردار۔ ج بَطَارِكَةٌ وَبِطَارِنِكٌ۔

بَطَشٌ (ن ض) بَطَشًا : بہ، سختی سے پکڑنا

ہے۔ ہر چیز کا اندرونی حصہ۔ پوشیدہ۔ من
الأرضی: پست حصہ۔ من القدم: کوا۔

ج أبطئة ونظنان۔

الباطنة: بید۔

البطین: دور۔ کہا جاتا ہے "شأؤ بطین"
مسافت بیدہ "کینش بطین" بھری ہوئی حملی۔
البطین: بڑے پیٹ والا۔

الظین: چاند کی منازل میں سے ایک منزل
کا نام۔

الغبطین: پتلے پیٹ والا۔

المبطنة: ایک قسم کی کشتی۔

الباطية: بڑا پیالہ۔ شراب کے لیے شیشہ کا
برتن۔ ج بواط۔

بَطَّ (ن) بَطَّ: العوڈ: بجانے کے لیے چھیننا۔
دورست کرنا۔

ابَطَّ: الزُّجْلُ: موٹا ہونا۔ صفت (بَطَّيظ)

البَطَّ: فِظُّ: کاتال ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قِظُّ
بَطَّ": وہ سخت مزاج ہے۔

بَطَّرَ (س) بَطَّرَ: الزُّجْلُ: غیر مختون ہونا
صفت أَبَطَّرَ: مؤنث بَطَّرَاء۔ ج بَطَّرَ۔

البَطَّرَ: انگوٹھی۔

البَطَّرَ: رائیگاں۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ ذَهَبُهُ
بَطَّرًا": اس کا خون رائیگاں گیا۔

المُبَطَّرَ: خند کرنے والا۔ مؤنث مُبَطَّرَةٌ۔

بَعَّ (ن) بَعَّ: بَعَّ: النَّصَاةُ: بکثرت سے برانا۔
التَّبَاعُ: سلمان۔ بادل کا پانی جو ابھی نہ برسا

ہو۔ کہا جاتا ہے "أَلْقَى السَّحَابُ بَعَاعَهُ"
بادل نے سارا پانی برسا دیا۔ "أَلْقَى بَعَاعَهُ
عَلَيْهِ" اس نے اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔

التَّبَعَةُ: جلدی جلدی بولے جانا۔

التَّبَاعِيَّةُ: فقرا جن کے پاس کچھ بھی مال
وجائیداد نہ ہو۔

بَعَّه (ف) بَعَّه و تَبَعَّاهُ: تمنا بھیجنا
ہو: دوسرے کے ساتھ بھیجنا۔ ہ:

براگینہ کرنا۔ جوش دلانا۔ کہا جاتا ہے "بَعَّه مِنْ
نَوْمِهِ" اس نے اس کو نیند سے بیدار کیا۔

"وَبَعَّه عَلَى الشَّيْءِ" اس نے اس کو فلاں کام
کرنے پر آسلیا۔ التَّبَيْتُ: دوبارہ زندہ

کرنا۔ اور اسی سے "يَوْمَ الْبَيْعِ" ہے بمعنی روزِ
قیامت۔

بَيْعَتُ (س) بَعَّه: نیند سے بیدار ہونا۔

تَبَعَّتْ الشَّيْءُ: کسی چیز کا تیزی سے ظاہر ہونا
_____ الشَّيْءُ مِنْهُ: شعر کی آمد ہونا۔

تَبَاعَثُوا: عَلَى الشَّيْءِ: ایک دوسرے کو
کرنے پر براگینہ کرنا۔

أَبَعَّتْ: بِمِثْلِهِ جَانًا: کسی چیز کا تیزی سے ظاہر
ہونا۔ فِي الشَّيْءِ: جلدی کرنا۔

إِتَّبَعَهُ: بِمِثْلِهِ۔

التَّبَعْتُ وَالتَّبَعْتُ: فوج: ہر وہ جماعت جو
کسیں بھیجی جائے۔ ج تَبَعْتُ وَتَبَعْتُ۔

التَّبَعْتُ وَالتَّبَعْتُ: جس کو غم بیدار رکھے اور
نیند سے اٹھاوے۔

التَّبَاعُوثُ: عیسائیوں کی اصطلاح میں استقامت
کی نماز (کلمہ سراینہ ہے)

التَّبَاعُوثُ وَالتَّبَاعُوثُ: سبب ج بَوَاعِثُ۔

التَّبَعِثُ وَالتَّبَعِثُ: بھیجا ہوا۔ اٹھایا ہوا۔

يَوْمَ بَعَاثُ: ایک جنگ کا نام جو اوس و خزرج
کے درمیان زمانہ جاہلیت میں ہوئی تھی۔

بَعَثَهُ بَعَثَةً: کھیرنا۔ المَتَاعُ: اَلثَّنَا
پلٹنا۔

تَبَعَثَرُ: اَلثَّنَا پلٹا جانا۔ کہا جاتا ہے "تَبَعَثَرْتُ
نَفْسِي" یعنی میرا نفس مضرب ہو گیا اور حملی
ہونے لگی۔

بَعَّجَ (ف) بَعَّجَا: التَّبَلُّغُ: پھاڑنا۔ صفت
(بَاعِجٌ) صفت مشغول (مَبْعُوجٌ وَبَعِيجٌ) بعج

_____ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے۔
ج بَعَّجِي _____ الأَرْضُ آهَارًا: بہت کوسیں

کھودنا _____ المَنْظَرُ الأَرْضُ بَعَّجَ لِيْنَهَا:
شہرت و قورح کی وجہ سے چھروں کو ظاہر کر دینا

_____ بطنہ لہ: خیر خواہی میں مبالغہ کرنا۔

تَبَعَّجَ وَالتَّبَعَّجَ: السَّحَابُ: برس کر کھل
جانا _____ الشَّيْلُ: سیلاب کا تیزی کے ساتھ

بڑھنا _____ عَلِيٌّ بِالْكَلَامِ: بہت زیادہ باتیں
کرنا۔

التَّبَاعِجَةُ: داوی کا کاشہ حصہ۔ ج بَوَاعِجُ۔

بَعَّدَ (ك) بَعَّدَا وَبَعَّدَ (س) بَعَّدَا: دور ہونا۔

ہلاک ہونا۔ مرنا۔ صفت (بَاعِدٌ) ج بَعَّدُو (بَعْدُ)
مغرور و ج دونوں کے لیے و (بَعِيدٌ) ج بَعَّدَا و

بَعْدُو وَبَعْدَانُ۔

أَبَعَّدَ: دُور ہونا۔ (أَبَعَّدَهُ وَبَعَّدَهُ وَبَاعَدَهُ):
دور کرنا۔

تَبَاعَدُوا: ایک دوسرے سے دور ہونا۔

تَبَعَّدَ: دور ہونا۔

تَبَاعَدَ وَابْتَعَدَ وَاسْتَبَعَدَ: عَنَهُ: دُور ہونا۔
إِسْتَبَعَدَ الشَّيْءُ: دُور پانا یا کھٹنا۔

التَّبَعْدُ وَالتَّبَعْدُ وَالتَّبَعْدَةُ: دوری۔ رائے و

دور اندیشی۔ بَعْدَ اللّٰهِ: بددعا ہے۔ یعنی اللہ اس
کو ہلاک کرے یا خیر سے محروم کرے۔

التَّبَعَادُ: بیدار کی مانند صفت ہے۔ دور۔

بَعَّدَ: حُرْفٌ زَلٌّ ہے بمعنی پچھنے۔ اور اس
کے لیے اضافت لازم ہے اور اگر اضافت نہ

ہو تو ارادہ اضافت کی صورت میں جہتی رضہ
ہوتا ہے اور اگر اضافت نیت میں بھی نہ ہو

توضوہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ بَعَّدُو وَبَعَّدَا
مِنْ بَعْدُ۔

الأَبَعَادُ: بہت دور۔ خیانت کرنے والا۔ ج
أَبَاعَدُ۔

زَجَلٌ (مِنْبَعْدُ): بہت دور دور کا سفر کرنے
والا۔

بَعَّرَ (س) بَعَّرَا: الجَمَلُ: نو (۹) سالہ یا چار
(۳) سالہ اونٹ ہونا۔

بَعَّرَ (ف) بَعَّرَا: بیگنی کرنا۔

بَعَّرَ البَعِيَّ وَابْتَعَّرَهُ وَتَبَعَّرَهُ: ساری بیگنی
نکال دینا۔

البَعْرُ وَالبَعْرُ: ج أَبْعَارُ: بیگنی۔ واحد (بَعْرَةٌ)
ج بَعْرَاتُ۔

التَّبَعِيرُ: نو (۹) سالہ یا چار (۳) سالہ اونٹ یا
اوشنی ج بُعْرَانُ وَابْتَعَّرَهُ وَج أَبَاعِيرُ وَابْتَاعِيرُ۔

التَّبَعِيرُ وَالتَّبَعِيرُ: بیگنی نکلنے کا عضو۔ آنت
کی چربی۔

بَعْرَلَةٌ بَعْرَلَةٌ: پرانہ کرنا۔ کھیرنا۔

بَعْضُ: الزُّجْلُ: چھروں سے تکلیف اٹھانا۔

صفت (مَبْعُوضٌ)

بَعْضُهُ: جئے ہانا۔ جزم جزم کرنا۔

تَبَعَضُ : ۲۶، ۲۷ ہوتا۔

أَبْعَضُ - الْمَكَانُ : مَجرور والی ہوتا بہت مَجرور والی ہوتا۔ صفت (بعض و متبعض) بَعْضُ - الشَّيْءُ : کسی چیز کا ایک جزء۔ اور کبھی ایک فرد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے "بَعْضُ النَّبِيِّ" : یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ ج۔ أَبْعَضُ۔

التَّبَعُضُ : مَجرور واحد (تَبَعُضَةٌ)

بَعَضَ (ف) بَعْظًا - فِي الْجَهْلِ وَالشُّومِ : مبالغہ کرنا۔ زیادتی کرنا الخِيَوَانُ : ذبح کرنا۔

أَبْعَطُ - فَلَانٌ : حد سے بڑھ جانا الخِيَوَانُ : طاقات سے زیادہ کی تکلیف دینا۔ فِي الْجَهْلِ : زیادتی کرنا۔

بَعَقَ (ف) نَ بَعَاقًا - الْمَنْظَرُ الْأَرْضِ : تریزے سے پرکردرا ڈال دینا۔

(بَعَقًا) الْجَمَلُ : اونٹ ذبح کرنا الخِيَوَانُ : کتواں کھودنا۔

بَعَقَ - الرَّقِي : ہلک پھاڑ دینا۔

تَبَعَّقَ وَالتَّبَعَّقَ وَالتَّبَعَّقَ - فِي الْكَلَامِ : تیزی کے ساتھ بہت گفتگو کرنا الخِيَوَانُ : زور سے برتنا۔

الباعق : مؤنث۔

البعاق : زور سے برسنے والا بول۔ حج۔

مَبَعَّقَ - الْمَفَارِجَ : بیابان میں کشادہ جگہ۔

الْبَعْقُطُ وَالْبَعْقُطُ : پست تد۔

الْبَعْقُطَةُ : گھریلا کی گولی۔

بَعَلَكَ (س) بَعَلًا - الْجِسْمُ : بدن کا ٹھک اور کھروا ہونا۔

الباعك : بیوقوف۔

بَعَكَمُوكَةً - النَّاسَ : لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ الخِيَوَانُ : گری۔

الْبَعَكَمُوكَةُ : کسی چیز کا درمیانی حصہ۔

بَعَلَ (ن) بَعَالًا وَبَعُولَةً - الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ : شوہر ہونا۔ بَعَلَتِ الْمَرْأَةُ : شوہر والی ہونا۔

بَعَلَ (س) بَعَلًا - بِأَمْرِهِ : تمحیر ہونا۔ صفت

(بعل) مؤنث بَعْلَةٌ۔

تَبَعَّلَتِ - الْمَرْأَةُ : شوہر کی اطاعت کرنا۔

بَاعَلَ - الْقَوْمُ قَوْمًا : آپس میں شادی بیاہ کرنا۔

اسْتَبْعَلَ : الْمَكَانُ : بارانی ہونا۔ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ : شوہر ہونا۔

البَعْلُ - ج بُعُولٌ وَبُعَالٌ وَبُعُولَةٌ : شوہر۔ بیوی کو بعل اور بَعْلَةٌ بھی کہتے ہیں۔ البَعْلُ : مالک۔ سردار۔ کہتے ہیں۔ "مَنْ بَعَلَ هَذِهِ النَّاقَةَ" اس اونٹنی کا مالک کون ہے۔ اسی کے لحاظ سے

کسٹانی وغیرہ بت پرست اپنے مجبوروں پر لفظ بعل کا استعمال کرتے تھے۔

البَعْلُ مِنَ الْأَرْضِ : بارانی زمین۔ بَعْلَتِكَ : نلک شام کے ایک شہر کا نام۔ نسبت کے لیے بَعْلَتِي وَبَعْلِي۔

الْبَعِيمُ : ایک بت کا نام۔ لکڑی کی بنی ہوئی مورت۔ موم کی گڑیا۔ رَجُلٌ بَعِيمٌ : شہر نہ کہہ سکنے والا مرد۔

بَعَائِيغِي وَبَعُورًا وَبَعِي بَعِيًا : گناہ کرنا۔ خطا کرنا الخِيَوَانُ : نظر بد لگانا الخِيَوَانُ : عَالِيَهُمُ الشُّومُ : کسی کے ساتھ برائی کرنا الخِيَوَانُ : مکتی لینا۔

بَعَّ (ن) بَعَا - الدَّمُ : خون کا جوش میں آنا۔ بَعَّغَ بَعِغَةً - البَسَاطُ : چھوٹا رووندا۔

الْمَبْعُغُ : گفتگو میں گڑبڑی کرنے والا۔ بہت جلد باز۔

بَعَّتَ (ف) بَعْتًا وَبَاعْتَةً : اچانک آنا۔ کہا جاتا ہے "لَسْتُ أَمِنُ مِنْ بَعَاتِ الْعَدُوِّ" میں دشمن کے اچانک آجانے سے مامون نہیں ہوں۔

بَعَثَ (س) بَعَثًا : بیزی مائل سفید ہونا۔ گرد اور ہونا۔ صفت (أَبْعَثَ) : مؤنث بَعَثَاءُ

الْأَبْعَثُ : ایک آبی پرندہ ج بَعَثٌ وَابْأَعَثَ - الْأَبْعَثُ : شیر۔

الْبَعِثَةُ : بیزی مائل سفیدی۔ البَعِثَاءُ - مِنَ النَّاسِ : لوگوں کا مخلوط گروہ۔ کہا جاتا ہے۔ "دَخَلْنَا فِي الْبَعِثَاءِ" ہم لوگوں کی جماعت میں داخل ہو گئے۔

الْبِعَاثُ : بتثلبت الباء : بیزی مائل سفید

رنگ کا ایک پرندہ۔ جو گدھ سے چھوٹا اور اڑنے میں سست ہوتا ہے۔ ج بَعَثَانُ عرب کے قول "إِنَّ الْبِعَاثَ بِأَرْضِنَا يَسْتَسِيرُ" کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پردوس میں رہتا ہے وہ ہماری وجہ سے معزز بن جاتا ہے۔

الْبِعِيثُ : گیسوں۔ بَعَثَرُ - الْقَوْمُ : جوش میں آنا۔ آپس میں مخلوط ہونا۔ بَعَثَرَةٌ : جدا جدا کرنا۔ مَحْرَقٌ كَرْنَا - بَعَثَرْتُ نَفْسَهُ وَتَبَعَثَرْتُ : جی مٹانا۔

الْبِعْثَرُ : بیوقوف۔ بڑے ذلیل ڈول کا اونٹ۔ بَعْدَادُ : عراق کے ایک شہر کا نام جس کو مدینة السلام اور زوراء اور دار السلام بھی کہتے تھے۔

تَبَعْدَادُ : بغداد کی جانب منسوب ہونا۔ بغداد والوں کی مشابہت اختیار کرنا۔

بَعْرُ (س) بَعْرًا وَبَعْرًا : پانی پینا اور سیراب نہ ہونا۔ صفت (بَعِيرٌ وَبَعِيرٌ) ج بَعْرَانِي وَبَعْرَانِي بَعْرَتُ (ن) بَعْرًا - السَّمَاءُ : برساتنا الخِيَوَانُ : ستارہ گرنا۔

بَعْرَتُ - الْأَرْضُ : بارش ہونا۔ البَعْرُ : پیاس جس میں سیرابی نہ ہو۔ (والبعر) : سخت بوجھار۔ کہا جاتا ہے۔ "نَفَرْنَا وَبَعْرًا" وہ لوگ ہر طرف متفرق ہو گئے۔

الْبَعْرَةُ : پانی کی قوت۔ بَعْرَهُ (ف) بَعْرًا : لاٹھی سے مارنا۔

البَعْرُ : سرعت حرکت۔ چستی۔ البَاعِزُ : چست۔ فسق و فجور میں منہمک۔ البَاعِزِيَّةُ : حریر کی مانند ایک قسم کا کپڑا۔ البُعُوزُ : آبنائے۔ ج بَعُوزًا

بَعَثَتْ (ف) بَعَثًا - السَّمَاءُ : ہلکی بارش برساتنا الخِيَوَانُ : الصبغ إلى أُنْتِهِ : روانا ہو کر متوجہ ہونا۔

بَعَثَتْ - الْأَرْضُ : ہلکی بارش پڑنا۔ البَعَثَةُ : ہلکی بارش۔

بَعْضٌ وَبَعْضٌ (ن) ك) وَبَعْضٌ (س) بَعْاضَةٌ : دشمنی کرنا۔ نفرت کرنا (مَا أَبْعَضَنِي لَهُ

وَمَا أَبْغَضَ إِلَيَّ سِوِيَّيْهِ لَمَّا كَرِهَ لَهَا بَيْتًا مِمَّا
أَبْغَضْتَنِي لَهُ" کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
میں اس کے نزدیک بہت زیادہ مبغوض ہوں
اور جب مَا أَبْغَضَ إِلَيَّ" کو تو اس کا مطلب
یہ ہے کہ وہ میرے نزدیک بہت زیادہ مبغوض
ہے۔

بَغَضَ إِلَيْهِ: نَفَرَتْ دَلَانًا - دُشَمْنِي دَلَانًا -

أَبْغَضَ: دُشَمْنِي كَرَاهًا - نَفَرَتْ كَرَاهًا -

تَبْغِضَ: إِلَيْهِ: دُشَمْنِي كَرَاهًا -

تَبَاغَضُوا: أَيْكَ دُشَمْنِي كَرَاهًا -

التَّبْغِضُ: نَفَرَتْ - دُشَمْنِي -

أَلْبِغَضَةُ وَالتَّبْغِضَاءُ وَالتَّبْغِضَانَةُ: سَخَتْ

دُشَمْنِي - الْبِغْضَةُ: دُشَمْنِي كَرَاهًا وَاللَّوْغُ: سَخَتْ

التَّبْغِضُ: سَخَتْ دُشَمْنِي رَكْعَةً وَاللَّوْغُ:

بَقَلْهُمُ (ف) بَقَلًا: بَابُ كِي طَرَفٍ سَخَتْ

كِي أَوْلَادًا كَوَدَّ عِلَا قَرَارًا نَبَا -

بَقَلٌ: بِمَعْنَى بَقَلٌ فِي الْمَشْيِ:

تَهَكُّبًا جَانِبًا عَاجِزًا هَوَانًا -

التَّبْعَلُ: حَمْرٌ جَ بَعَالٍ وَأَبْعَالٌ - مَوْنَتٌ بَعْلَةٌ

جَ بَعْلَاتٍ وَبَعَالٌ -

التَّبْعَالُ: حَمْرٌ وَاللَّوْغُ: يَأْتِي بِمَعْنَى كَرَاهًا -

بَعَمْتُ (ف ن ض) بَعُومًا وَبُعَامًا وَ

تَبَعَمْتُ: الطَّبِيعَةُ: بِمَعْنَى نَزْمٍ أَوَّازٍ كَالنَّوْمِ - صَفَتْ

(بَاعِغَمَةٌ وَبُعُومٌ) نَعَمَ الرَّجُلُ صَاحِبِيهِ: بِمَعْنَى

مُتَعَمِّقًا كَرَاهًا -

بَاعِغَمَةٌ: نَزْمٌ أَوَّازٌ سَمْتًا كَرَاهًا -

التَّبْعَامُ: هِرْنٌ كِي أَوَّازٌ -

التَّبْعَمَةُ: حَمْرٌ كِي بَابُ كَلِمَةٍ تَرَكِي (ج) جَ

بَعَمٌ -

بَعَا (ن) بَعُومًا - الشَّيْءُ: حَمْرٌ سَخَتْ دِيكِنًا

عَلَيْهِ: تَعَدَّى كَرَاهًا - زِيَادَتِي كَرَاهًا - صَفَتْ

(بَعُومًا) الْبِعُومَةُ: كَيْفَ يَحْمِلُ مِنْ التَّبَاتِ:

مُتَعَمِّقًا كَرَاهًا -

بَغَى (ض) بَغَاءً وَبَغِيًا وَبَغِيًا وَبَغِيَةً وَبَغِيَةً -

الشَّيْءُ: طَلَبَ كَرَاهًا الرَّجُلُ: حَتَّى سَخَتْ

بِهِتًا جَانِبًا نَافِرًا كَرَاهًا عَلَيْهِ: دَرَارٌ دَسْتِي

كَرَاهًا - طَلَبَ كَرَاهًا - صَفَتْ (بَاغ) جَ بَغَاءً وَبَغِيًا

الشَّيْءُ: سَخَتْ بَرَسَانًا الْأُمَّةُ: زِنًا

كَرَاهًا - الْجُنْحُ: سَوَجًا خَرَابٌ هَوَانًا

بَغِيًا سَخَتْ -

إِبْتَغَى وَتَبَغَّى: الشَّيْءُ: طَلَبَ كَرَاهًا -

أَبْغَاءَ الشَّيْءِ: طَلَبَ بِنَانًا - طَلَبَ كَرَاهًا فِي مَدَدٍ

رِيثًا - كَمَا جَاءَ فِي "أَبْغَيْتُ ضَالِيًا": مِيرِي كَمٌ

شَدِيدٌ جِزِي كَلِشٌ فِي مَدَدٍ كَرَاهًا -

بَاغَتْ الْأُمَّةُ بَغَاءً وَبَغَاءَةً: زِنًا كَرَاهًا -

تَبَاغَى: الْقَوْمُ: بَعْضٌ كَالْبَعْضِ طَلَبَ كَرَاهًا -

إِبْتَغَى: سَلَّ هَوَانًا - آسَانٌ هَوَانًا - كَمَا جَاءَ فِي

"لَا يَبْتَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ": تَهَارَةً لِي

مُنَاسِبٌ نَيْسٌ كَمَا أَيْسَا كَرَاهًا - (اس) فَعْلٌ كَالْمَاضِي

مُسْتَعْمَلٌ نَيْسٌ -

إِسْتَبَغَى: الشَّيْءُ: طَلَبَ كَرَاهًا الْقَوْمُ:

طَلَبَ كَرَاهًا فِي مَدَدٍ جَانِبًا -

الْبَغْيُ: طَلَبٌ جَانِبًا - كَرَاهًا - بِمَعْنَى بَارَشٍ - فَسَادٌ -

كَمَا جَاءَ فِي "بُؤِي جُزْجُهُ عَلَيَّ بَغْيًا": بِمَعْنَى

أَسْ كَارِخُمٍ مَنَدَلٌ تَوَافُؤًا كَيْفِيًا أَمْرًا فَاسِدًا مَادَةً بَاتِي

رَهًا كَرَاهًا -

الْبَغْيَةُ وَالتَّبَغْيَةُ وَالتَّبَغْيَةُ: مَرْغُوبٌ وَ

مَطْلُوبٌ - التَّبَغْيَةُ: حَاجَةٌ -

الْبَغْيِيُّ: بَدْرٌ كَارِوَنٌ كَارِوَنَةٌ - جَ بَغْيَا - بَغْيَا

الْبَغْيِيُّ: فُوجٌ كِي هِرَاوَلٌ دَسْتِي -

الْمَتَبَغَّى وَالتَّبَغْيَةُ: طَلَبَ كَرَاهًا كِي نَوْعِيَّةً يَأْتِي

بِجَدٍّ - كَمَا جَاءَ فِي "بَغَيْتُ الْمَالِ مِنْ مَتَبَغَاتِهِ"

مِي نِي مَالٍ كُوَاسٍ كِي مَوْقِعٍ كِي كَلِشٌ كَرَاهًا - جَيْسِي

كَمْتِي فِي "أَتَيْتُ الْأَمْرَ مِنْ مَتَاتِيهِ": مِي نِي

كَامٍ كُوَاسٍ طَرَحٍ أُنْجَامٍ دِي جَيْسِي دَسْتِي -

الْمُنْتَبَغِيُّ: شَمْرٌ -

فَتَاةٌ (بَاغِيَّةٌ): أَمَامٌ عَادِلٌ كِي طَاعَتٍ سَخَتْ

وَاللَّوْغُ: جَانِبًا -

بَغَى (ن) بَغَا: الْمَاءُ مِنْ لِيهِ: يَانِي كُوَمَةً مِي

سَخَتْ زُورًا سَخَتْ بِيكِنًا لَنَا الْعَطَاءُ: جَانِبًا

وَسِجٌ كَرَاهًا مَالَةً: كَبِيرِيَا - مَتَفَرَّقٌ كَرَاهًا

الْجَزَابُ: مَحَارِثًا (بَغَا وَبَغُومًا) -

النَّبْتُ: أَمَّا السَّمَاءُ: كَلَامٌ كَثُرَتْ

سَخَتْ بَارَشٌ هَوَانًا الْمَرْأَةُ: بِمَعْنَى أَوْلَادٍ وَوَالِي

هَوَانًا النَّبْتُ: بِمَعْنَى كَمَلٌ وَاللَّوْغُ: (ب)

بَقَا وَبَقَا وَبَقَى عَلَى الْقَوْمِ: بِمَعْنَى

بِكَبٍ كَرَاهًا -

بَقِقَ: مَالَةً: مَتَفَرَّقٌ كَرَاهًا - (وَأَبَقَى) النَّبْتُ:

بِمَعْنَى كَمَلٌ هَوَانًا وَأَبَقَى وَلَدٌ فَلَانٌ: بِمَعْنَى هَوَانًا -

أَبَقَّتِ الْمَرْأَةُ: بِمَعْنَى أَوْلَادٍ وَوَالِي هَوَانًا

السَّمَاءُ: كَلَامٌ بِمَعْنَى بَارَشٌ هَوَانًا -

الْبَقِيَّةُ: كَمَلٌ - بِمَعْنَى -

الْبَقِيَّةُ: كَمَرٌ كَارِي سَالِمًا - رَجُلٌ بَقِيَّةٌ

وَبَقِيَّةٌ: بِمَعْنَى بَوْلَانٌ وَاللَّوْغُ:

بَقِيَّةٌ بَقِيَّةٌ: الْكُؤُوزُ فِي الْمَاءِ: بَقِيَّةٌ كِي

أَوَّازٌ كَلَامًا الْقُدْرُ: أَلْبَانًا

الرَّجُلُ: بِمَعْنَى بِكَبٍ كَرَاهًا -

الْبَقِيَّةُ: بِمَعْنَى بَوْلَانٌ وَاللَّوْغُ: كَمَا جَاءَ فِي

"رَجُلٌ لَقَلَقٌ بَقِيَّةٌ": بِمَعْنَى كُوَاسٍ كَرَاهًا

وَاللَّوْغُ:

التَّبْقِيَّةُ: كَبِيرِيَا وَغَيْرُهُ كِي شَمْرِي (جَدِيدِي)

التَّبْقِيَّةُ: أَيْ كِي مَاتَاتٍ -

بَقْرَهُ (ف) بَقْرًا: مَحَارِثًا - كَمَلًا - وَسِجٌ كَرَاهًا -

بَقْرَ (س) بَقْرًا: نَظَارَةٌ كَامَلَةٌ جَانِبًا -

أَبْقَرُ: الْمَرْأَةُ عَنْ جَيْسِيهَا: بِمَعْنَى جَيْسِي كَرَاهًا

كَلَامًا -

إِبْتَقَرُ: مَحَارِثًا - كَمَلًا - وَسِجٌ هَوَانًا -

تَبَقَّرُ: الرَّجُلُ: عِلْمٌ يَأْتِي فِي زِيَادَتِي وَوَالِي

هَوَانًا -

التَّبَقُّرُ: كَمَلًا - بِل (اسم جنس) وَوَالِي (بَقْرَهُ)

جَ بَقْرَاتٍ وَبَقْرًا وَبَقْرًا وَبَقْرًا وَبَقْرًا وَبَقْرًا

وَأَبَاقِرُ - بَقْرُ الْوَحْشِ أَوْ التَّبَقُّرُ الْوَحْشِي:

بِل كَمَلًا - جُؤُوجُ التَّبَقُّرُ: سَخَتْ بِمَعْنَى كَمَلًا -

التَّبَقُّرُ: أَيْ كَمَلًا كَامَلًا - بَقْرُ الْمَاءِ: كَمَلًا كِي

مَشَابَهُ أَيْ كَمَلًا كِي مَحَارِثًا -

التَّبَقُّرُ وَالتَّبَقْرَانِي: مَحَارِثًا - مَحَارِثًا - كَمَا جَاءَ فِي

"جَاءَ فَلَانٌ بِالصَّفْرِ وَالتَّبَقْرَانِي وَالتَّبَقْرَانِي

وَالتَّبَقْرَانِي": فُلَانٌ مَحَارِثًا مَحَارِثًا وَوَالِي

معبیت لایا۔ یعنی معبیت کا سبب بنا۔
 البَقِیْرُی: بچوں کا ایک کھیل۔
 البَقَار: گائے والا۔ گائے کا چرواہا۔
 الباقِرُ والباقُورُ والبَقُورُ: گاؤں کا روڑ۔
 یہ اسم جمع ہیں۔
 هِنْتَةٌ (باقِرَةٌ): نخت کو ختم کر دینے والا بڑا
 قند۔

البَقِیْرَةُ والبَقِیْرُ: بغیر آستینوں والی عورتوں
 کی قمیض۔ نَاقَةٌ بَقِیْرَةٌ: اونٹنی جس کا پیٹ
 چاک کر کے بچے نکالا گیا ہو۔
 البَقْسُ: ایک درخت کا نام جس کی کڑوی
 تخت ہوتی ہے اور اس سے بچے بنائے جاتے
 ہیں۔ واحد (بقسہ)

بَقَطَ (ن) بَقَطًا: مَنَاعَةٌ: سز کے لیے جمع
 کرنا۔ مَنَعَتْكَ بَقَطًا: فلَانًا بَسْتَانَهُ: تمانی
 یا چوتھائی پیداوار کی شرط پر دینا۔

بَقَطَ لِي الْجَبَلُ: چڑھنا۔
 الشَّيْءُ: متفرق کرنا۔

تَبَقَطَ الشَّيْءُ: تھوڑا تھوڑا لیتا
 اُنْحَبِرُ: تھوڑا تھوڑا حاصل کرنا۔

البَقَطُ: توڑنے کے وقت کی گرمی ہوئی
 کھجوریں۔ متفرق جماعت۔
 البَقَاطُ: پیر کا گلہ۔
 البَقِطَةُ: زمین کا ایک حصہ۔

بَقِعَ (س) بَقَعًا: الظَّلْمُ: مختلف رنگ والا
 ہونا۔ صفت (أَبْقِعَ) مؤنث بقعاء ج بَقِعَ
 _____ فلَانٌ بِالشَّيْءِ: اکتفا کرنا _____

الأَرْضُ مِنْهُ: خالی ہونا۔
 بَقِعَ (ف) بَقَعًا وَبَقِعَ: جانا۔ تم کہتے ہو "ما
 أَذْرَى أَيْنَ بَقِعَ" میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔
 بَقِعَ الثَّوْبُ: رنگتے ہوئے سفید داغ
 چھوڑنا۔

تَبَقِعَ: داغدار ہونا۔ تَبَقِعَتِ الثَّيَابُ:
 کپڑوں پر پانی کے چھینٹے اس طرح ڈالے گئے
 کہ باقی رہے ہوئے بے رنگ شک جتنے بھی
 تر ہو گئے۔

أَبْقِعَ: تیز جانا۔
 أَبْقِعَ: لَوْثُهُ: خوف یا غم سے بدلے ہوئے
 رنگ والا ہونا۔ (أَبْقِعَ مِمَّكَ سے زیادہ اصح ہے)
 البَقْعَةُ والبَقْعَةُ: زمین کا ٹکڑا۔ ج بَقَاعُ وَ
 بَقَعٌ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ حَسَنُ البَقْعَةِ عِنْدَ
 الأَمِيرِ": فلاں امیر کے پاس اچھے رتبہ والا ہے۔
 وَالبَقْعَةُ: پانی جمع ہونے کی جگہ۔

البَقِيعُ: وہ جگہ جہاں مختلف قسم کے درختوں
 کی جڑیں ہوں۔ اِنْبُقِيعٌ: کتا۔
 الباقِعةُ: الباقع کا مؤنث۔ ہوشیار و ذہیرک
 مرد جس کو فریب نہ دیا جاسکے۔ ج بَوَاقِعُ کہا جاتا
 ہے "مَنْ فُلَانٌ إِلَّا بِبَاقِعَةٍ مِنَ البَوَاقِعِ": یعنی
 فلاں بڑا چالاک ہے۔

الأَبْقِعُ: سیاہ سفید داغوں والا۔ مؤنث بقعاء۔
 ج بَقِعَ: کتا جس میں سیاہی سفیدی ہو۔ ج
 بَقَعَانُ: سَنَةٌ بَقَعَاءُ: سال جس میں سرسبزی
 و خشک سالوں دونوں ہوں۔

الأَبْقِيعُ: کم بارش والا سال۔
 بَقَلَ (ن) بَقَلًا وَبَقُولًا وَبَقَلٌ: ظاہر ہونا
 _____ نَابُ البَقِيعِ: لکنا _____ المَكَانُ:

سبزی آگنا۔ صفت (بِالْقَالِ وَبِقَالٍ وَبِقِيلٍ)۔ وَجْهٌ
 الغَلَامِ: سبزہ آناز ہونا۔ بَقَلَ لِبَعِيْرِهِ بَقَلًا:
 ساگ پات جمع کرنا۔ وَأَبْقَلَ القَوْمُ: سبزی پانا
 قوم کے موٹی کا سبزی کو چرنا۔

بَقَلَ: وَجْهٌ الغَلَامِ: سبزہ آناز ہونا۔
 تَبَقَلَ وَابْتَقَلَ: سبزے کی تلاش میں جانا
 _____ المَناحِيْبُ: سبزہ چرنا۔

البَقْلُ: سبزی۔ تَرَكَارِي: ج بَقُولُ وَأَبْقَالُ
 البَقْلَةُ: البَقْلُ کا واحد (بَقْلَةُ الخُمْقَاءِ وَ
 بَقْلَةُ الرُّهْمَاءِ وَبَقْلَةُ اللَّيْتِ) خرفہ کا ساگ۔
 البَقْلَةُ البَارِدَةُ: مشق پیچہ۔
 بَقْلَةُ الأَنْصَارِ: کرم کلا۔

البَاقِلَاءُ وَالبَاقِلِيُّ وَالبَاقِلِيُّ: لوبیا۔ أَرْضٌ
 (بَقْلَةٌ وَبَقِيْلَةٌ وَبَقَالَةٌ وَبَقْلَةٌ) سبزی والی
 زمین۔
 البَقَالُ: سبزی فروش۔

المَبْقَعَةُ: سبزی کی جگہ۔
 البُقَالُ وَالبَاقُولُ: بویام۔ مٹی کی دوات۔
 ج بَوَاقِيلُ
 بَقِمَ الثَّوْبُ: کپڑے کو ختم سے رکنا۔
 البَقِمُ: ایک قسم کی کڑوی جو کپڑے رنگتے
 میں کام آتی ہے۔
 البَقِمُ: دستورا۔

البَقَامَةُ مِنَ الضُّوْفِ: اُون جو دھننے میں
 گر جائے اور کاسٹے کے قابل نہ ہو۔ کمزور بے
 عقل مرد۔

بَقَا (ن) بَقَاوَةٌ وَبَقِي (ض) بَقِيًّا: فَلَانًا
 بَقِيِيْبِهِ: دیکھنا۔ نَظَرُوا لَنَا _____: انتظار کرنا۔
 بَقِي (س) بَقَاءٌ وَبَقِي (ض) بَقِيًّا: ہمیشہ
 رہنا۔ ثابت رہنا۔

أَبْقَى عَلَيْهِ: رحم کرنا۔ مہربانی کرنا۔ _____
 وَبَقِي وَتَبَقَّى وَاسْتَبَقَى: حُ: ثابت کرنا۔ باقی
 رکھنا۔ اسْتَبَقَى مِنْهُ: کچھ باقی رکھنا۔ تَبَقَّى:
 باقی رہنا۔

البَاقِي: فا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں
 سے ہے۔

البَاقِيَةُ: البَاقِي کا مؤنث۔ ج البَاقِيَاتُ
 وَالبَوَاقِيُ:

البَقْوِيُّ وَالبَقْوِيُّ وَالبَقِيَّةُ وَالبَقِيَّةُ: باقی
 ماندہ۔ ج بَقِيَانًا: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ بَقِيَّةٌ
 قَوْمِيهِ" فلاں اپنی قوم کے بہتر لوگوں میں سے
 ہے۔

المَبْقِيُّ: بقا۔ زنگولی۔ ج المَبْقِيَةُ
 بَكَّةُ (ن) بَكًّا: مزاحمت کرنا۔ الشَّيْءُ:
 چھڑانا۔ فُحَّحَ كَرْنَا _____ الدَّابَّةَ: چلا کر تھکانا۔

بَكَتِ الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔
 تَبَاكَ القَوْمُ: بھوم کرنا _____ الشَّيْءُ:
 تو بر تو ہونا۔

البَاكُ: فا۔ بیوقوف۔
 بَكَّةٌ: بکد کمرہ۔
 بَكْبَكَ وَتَكْبَكَ: القَوْمُ عَلَيْهِ: بھوم کرنا
 جَمَعَ (بَكْبَاكًا): بہت بڑی جماعت۔ وَجُلَّ

بَنَكَا: سخت مزاج مرد۔

بَكَاتٌ (ف) و بَكْوَةٌ ث (ك) بَنُكُوْا و بَكَاءٌ و بَنَاءٌ و بِنَاءٌ: الناقۃ: کم دودھ والی ہونا۔ البئر: کم پانی والا ہونا۔

العین: کم آنسو والی ہونا۔ صفت (بکیئ و بکیئة و بکی و بکیئة) ج بکاء و بکابا۔ اُیڈ بکاء: کم دودھ والے ہونے والے ہاتھ۔

بکیئ (س) بَنَاءٌ: اپنی حاجت سے محروم رہنا۔

أَبْكَاءُ: اللذر: کم پانا۔

البكء و البکاء: ایک قسم کی نباتات۔ واحد بکاء۔

بَكْنَةُ (ن) بَنَكْنَا: تلوار یا لاطھی سے مارنا۔

حجت میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "بکنتہ حتیٰ أمسکتہ": وہ اس پر حجت میں غالب رہا یہاں تک کہ اس کو خاموش کر دیا۔

بَكْنَةُ: بمعنی بکنتہ: زجر کرنا۔ سرزنش کرنا۔ جھڑکنا۔ اور اسی سے ہے تَبَكَّيْتُ الضَّمِيرَ۔

بَكَّرَ (س) بَكَّرَا: اِلَى الشَّيْءِ: جلدی کرنا۔

بَكَّرَ (ن) بَكَّرُوا: آگے بڑھنا۔ عَلَيْهِ وَآلِهِ: صُحُجٌ کے وقت آنا۔ فِي الشَّيْءِ: صُحُجٌ سویرے کرنا۔

أَبْكَرَ و بَكَّرَ: آگے بڑھنا۔ جلدی کرنا۔ فَلَانًا: صُحُجٌ کے وقت آنا۔ بَكَّرَهُ عَلَيْهِمُ: کسی کو صُحُجٌ سویرے بھیجنا۔ بَكَّرَ الْمُضَلِّي: اَزَلٌ وقت میں نماز کے لیے آنا۔

بَكَّرَهُ: آگے بڑھنا۔

إِبْتَكَّرَ: کسی چیز کے ابتدائی حصہ پر قابض ہونا۔ فَلَانًا: صُحُجٌ کے وقت آنا۔

الْبَاكِرُ: قَا: آتَاهُ بَاكِرًا: وہ اس کے پاس صُحُجٌ کے وقت آیا۔

البکر: والدین کا پہلا بچہ۔ (نکر و مؤنث دونوں کیلئے ہے) جو ان گائے: کنواری۔ ہر چیز کا اول۔ ج ابکار۔ البکر: ہر فعل کہ اس جیسا اس سے پہلے نہ ہوا ہو۔ الضَّرْبَةُ البکر: تلوار

کا دار جو قاتل ہو۔ كَرَمٌ بَكْرٌ: پہلا دانہ انکور کا۔ نازٌ بَكْرٌ: آگ جس میں سے ابھی کچھ لیانہ گیا ہو۔ خَلٌّ بَكْرٌ: تیز سرک۔ الذَّرَّةُ البَكْرُ: ذر ناسف۔

البکر۔ جوان اونٹ۔ ج أَبْكَرٌ و بُكْرَانٌ و بَكَارٌ و بَكَارَةٌ۔ مؤنث بَكْرَةٌ ج بَكَارٌ۔

البكورة: صُحُجٌ۔ تم کہتے ہو "أَبْتَيْتُهُ بَكْرَةً" میں اس کے پاس صُحُجٌ کے وقت آیا۔

البكورة و البكورة: ذنی سامان اتارنے چڑھانے کی چرخی۔ ج بَكْرٌ و بَكْرَاتٌ۔ کہا جاتا ہے "والبكوراتُ شَرُّهُنَّ الضَّائِمَةُ" چرخیوں میں سے بڑی وہ ہے جو گھومے نہیں۔ البكورة: جماعت۔ اور اسی سے ہے "جَاءَهُ وَاعْلَى بَكْرَةً أَبْتَيْتُهُمْ" وہ سب کے سب آئے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔

البكارة: دو شیرگی۔ کنواریاں۔

البكورة و البكورة: البکر کا اسم۔

البكورة: پہلا میوہ۔ ہر چیز کا پہلا۔ ج بَوَاكِرٌ و بَوَاكِرَاتٌ۔

البكيرة و الباكور و البكور: ہر چیز میں سے پہلے تیار ہونے والا۔ موسم بہار کی ابتدا کی بارش۔

البكيرة: پھل یا درخت خرما جو پہلے تیار ہو جائے۔ ج بَكَابِرٌ۔

المُبَكِّرُ: قَا: موسم بہار کی پہلی بارش۔

المُبَكِّرُ: پھل یا درخت خرما جو پہلے تیار ہو جائے۔ اَزْطٌ مَبَكَّرٌ: جلدی آگانے والی زمین۔ ج مَبَكِّرٌ۔

بَكْنَةُ (ن) بَنَكْنَا: مغلوب کرنا۔

بَكْنَةُ (ف) بَنَكْنَا: بدن کے مختلف حصوں پر سخت مارنا۔ حجت سے مغلوب کرنا بد سلوکی سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْرِي أَيْنَ بَكْعٌ" میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ و بَكْعٌ الشَّيْءِ: بخش دینا۔

بَكْنَةُ: کھلے کھلے کرنا۔ حجت سے مغلوب کرنا۔ و بَكْلٌ (ن) بَنَكْلٌ و بَكْلٌ: ملانا

الرَّجُلُ: آتَا: ستو: گھی ملا کر کھانا تیار کرنا۔

تَبَكَّلَ: فِي الكَلَامِ: بزرگوں کو گھونکنا۔ هُوَ عَلَيْهِ: گال گونج مار بیٹ سے غالب آنا۔

الشَّيْءِ: غِيَمَتٌ سمجھ کر لینا۔ الرَّجُلُ: خوش میثی کی زندگی بسر کرنا۔ فِي مَشِيئِهِ: ناز سے چلنا۔

إِبْتَكَّلَ: الشَّيْءِ: غِيَمَتٌ سمجھ کر لینا۔ أَلْبَكَلَةُ: حال۔ بیعت۔ شکل و صورت۔

طبیعت۔ ج بَكَلٌ۔

البكالة و البكيلة: ایک قسم کا کھانا جو آتَا: ستو: گھی یا روغن زیتون ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔

البكيلة: غِيَمَتٌ۔

بَكِمٌ (س) بَكَمًا و بَكَامَةً: گونگا ہونا۔ صفت (بکیم) ج بَكِيمٌ و (بکیم) ج بَكِيمَانٌ۔

بَكِمٌ (ك) بَكَامَةً: جان بوجھ کر خاموش ہونا۔

تَبَكَّمَ: الكَلَامِ عَلَيْهِ: گفتگو کا بند ہو جانا۔

بَكَّى (ض) بَكَاءٌ و بَكْيٌ: رونا۔ صفت (بک) ج بَكَاءٌ۔ مؤنث بَاكِيَةٌ ج بَاكِيَاتٌ و بَوَاكِيٌ۔

بَكَّى و بَكَّى: المَيْتِ: میت پر رونا۔ بَكَّى و أَبْكَى و اسْتَبْكَى: الرَّجُلُ: زلانا۔ تَبَاكَى: رونے کی صورت بنانا۔ بَخْلَفَ رونا۔

البكاء و البكئ: بہت رونے والا۔ التَّبَكُّاءُ و التَّبَكِّيُّ: گریہ یا کثرت گریہ۔

المَبْكِيُّ: رونے کی جگہ ج مَبَاكِيٌ۔

بَلٌّ: حرف عطف ہے۔ سابق سے اضرب کیلئے آتا ہے جیسے "مَا ذَهَبَ زَيْدٌ بَلَّ عَمْرُوٌ" میں حکم عمر کے لیے ہے اور زید مسکوت عند کے حکم میں ہے۔

بَلَّةٌ (ن) بَلًّا و بِلَّةٌ و بَلَلًا: بِالمَاءِ: تر کرنا بَلٌّ يَدُهُ: رونا۔

بَلٌّ (س) بَلًّا و بَلَلًا: بَكَدًا: فتح مند ہونا۔

كاسياب ہونا۔ پالینا جیسے "إِذَا بَلَّتْ بِقَاتِمِهِ"

بَدْعٌ یعنی جبکہ اس کے بعض پر میرا ہاتھ پڑے۔

بَلَّ (ض) بَلَّلًا وَبَلَّلًا وَبَلَّلًا مِنْ مَرَضِهِ: صحت یاب ہونا۔ چنگا ہونا () بَلَّلًا فِی الْأَرْضِ) جانا () بَلَّلًا التَّرْفِیحَ: سرد ہوا کا چلنا۔

أَبَلَّ الشَّجَرُ: چھلدار ہونا () الْفَوْدُ: کوزی میں تری کا ہونا۔ مِنْ مَرَضِهِ: صحت یاب ہونا۔ أَبَلَّهُ فِی الْأَرْضِ: لے جانا۔

بَلَّلَ الثَّوْبَ: تر کرنا۔

تَبَلَّلَ وَابْتَلَّ: تر ہونا () وَاسْتَبَلَّ مِنْ مَرَضِهِ: صحت یاب ہونا۔

البَلُّ: صحت و شفا۔ مباح۔ اور اسی سے عباس بن علی کا قول ہے "لَا أُحِلُّهَا لِغُفَّيْلٍ وَهِيَ لِشَارِبٍ حَلٌّ وَبَلٌّ" میں اس کو نمانے والے کے لیے حلال قرار نہیں دیا اور وہ پینے والے کیلئے حلال و مباح ہے۔ چالاک۔ کہا جاتا ہے "هُوَ بَلٌّ بَلَّلًا" وہ بڑا چالاک ہے۔

البَلَّةُ: جوانی کی تروتازگی۔

البَلَّةُ: تری۔ رزق۔ خیر۔

البَلَّالُ وَالبَلَّلُ وَالبَلَّلُ: تری پانی دودھ پیمانے کا حصہ جو حلق کو تر کر دے۔

البَلَّالَةُ: اتنی مقدار جس سے کوئی چیز تری جا سکے۔ تھوڑی سی چیز۔ تری۔

البَلَّلُ: بیج۔

البَلَّلِيلُ وَالبَلَّلِيَّةُ: نمی کے ساتھ ٹھنڈی ہوا۔

البَلَّلِيَّةُ: صحت۔

ذُو بَلِيٍّ وَبَلِيٍّ وَبَلِيَّانٍ: دور کی غیر معلوم جگہ۔

کہا جاتا ہے "هُوَ بَلِيٌّ بَلِيٌّ" وہ دور کی غیر معلوم جگہ میں ہے۔

الْأَبْلُ: بدکار۔ بڑا جھگڑالو۔ سخت بخیل۔ سونت بلاء۔ ج بَلٌّ اور کہا جاتا ہے "لَا شَيْءَ أَبْلٌ لِيْجَسِمٍ مِنْ كَذَا" جسم کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز موافق نہیں۔ ضغفارة بلاء: چٹنا پتھر۔

البَلَّانُ: حمام میں نسلانے والا۔ مَوْتٌ بَلَّانَةٌ وَالبَلَّانُ ج بَلَّانَاتٍ: حمام۔

البَلَّةُ: بیت و حال۔ کہا جاتا ہے "ظَلَوْنِيَّتِ السَّعَاءِ عَلَى بَلَّلِيٍّ وَبَلَّلِيَّةٍ" ملک کو بار جو دواس کی تری کے میں نے لپیٹ لیا۔ وَظَلَوْنِيَّتِ فَلَانَا

عَلَى بَلَّلِيٍّ وَبَلَّلِيَّةٍ وَبَلَّلِيٍّ وَبَلَّلِيَّةٍ وَبَلَّلِيَّةٍ: بار جو درعیب کے میں نے فلاں کو برداشت کیا۔

الْمَيْلُ: ہر وزن مَفْعَلٌ: مستقل۔ کہا جاتا ہے "حَصَمٌ مَيْلٌ" یعنی مستقل جھگڑالو۔

البَالُوْلُ: تھوڑا پانی۔

البَلَّالُ وَالبَلَّلِيلُ: بہت شور کرنے والا مور۔ مَتَبَّلِيلٌ: شیر۔

بَلَّلِيلٌ بَلَّلِيَّةٌ وَبَلَّلِيَّةٌ الْقَوْمُ: بھلا کرنا۔ جوش دلانا۔ غم میں جھلا کرنا () الْأَلْسِنَةُ: حلوٹ کرنا () الْأَمِيْعَةُ: حفرق کرنا۔ کھیرنا () الْأَرَاءُ: خراب کرنا بگاڑنا۔

تَبَلَّلِيلٌ: بھڑکانا۔ غم میں جھٹا ہونا۔

البَلَّلِيلُ: بلبل۔ ج بَلَّلَابِلٌ۔ بَلَّلِيلٌ الْإِبْرَئِيْقِي: لوسے کی ٹوٹی۔ عوام کے نزدیک بلبل بچوں کا ایک کھیل بھی ہے جس کے لیے فصیح لفظ "ذُو أَمَةٍ" (لٹو ہے)۔

البَلَّلِيَّةُ: عورت۔ غم۔ بھیرنا۔

بَلَّتْ (ض) بَلَّتًا: الشَّيْءُ: کانا۔

بَلَّتْ (ن) بَلَّتًا وَبَلَّتْ (س) بَلَّتًا وَابْتَلَّتْ: کٹنا۔

بَلَّتْ (ك) بَلَّلًا: فصیح ہونا۔

أَبَلَّتُهُ: بیٹھا: قسم دلانا۔ أَبَلَّتَ الرَّجُلُ: مٹھکو سے رک جانا۔

البَلِّيَّةُ وَالبَلِيَّةُ: مخفّر کلام کرنے والا۔ فصیح۔ خوش بیان۔ مخفّر۔

البَلِّيَّةُ: آراستہ کلام۔

البَلِّيْعُ: باہر۔ ہر چیز کا جاننے والا۔

البَلِّيْعِيُّ: زبان آور۔ فصیح۔

البَلِّيْثُ: دو سالہ پرانا چارہ جو سیاہ ہو گیا ہو۔

بَلَجٌ (ن) بَلُّوجًا وَابْلَجٌ وَتَبْلَجٌ وَابْتَلَجٌ وَابْتَلَجٌ: الصَّبِيْحُ: روشن ہونا۔

بَلَجٌ (س) بَلَجًا: صَدْرَةٌ: مطمئن ہونا () الْحَقُّ: واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔ صفت (البلج) مَوْتٌ بَلَجَاءٌ وَالأَبْلَجُ: علیحدہ علیحدہ ابروؤں والا۔

تَبْلَجٌ: اَلْبَيْتُ: ہنسا۔ خوش ہونا۔

ابْلَاجٌ وَابْلَاجٌ اِبْلَاجًا: ظاہر ہونا۔ واضح ہونا۔

البَلَجَةُ وَالبَلَجَةُ: سپیدہ رُوح () وَالبَلَجُ

ابروؤں کے درمیان کشادگی۔

البَلَجَةُ: درز۔ اور بَلَجَةٌ بِالْحَاءِ: صبح ہے۔

البَلَجُ وَالبَلَجُ: کشادہ رو۔

بَلَجٌ (ف) بَلَجًا: الْقَرْيُ: خشک ہونا۔

الْبَيْضُ: پانی شتم ہونا۔ صفت (بَلُوح) الرَّجُلُ بِالْأَمْرِ: انکار کرنا ()

الْقَرِيْبُ: مفلس ہونا () الرَّجُلُ بِشَهَادَتِهِ: چھپانا۔ () بَلُوحًا وَبَلَجٌ وَتَبْلَجٌ: تھکانا۔ عاجز ہونا۔ کہا جاتا ہے "بَلَجٌ وَبَلَجٌ عَلَى" یعنی میں نے اس کے پاس کچھ نہیں پایا۔

أَبْلَجُ الشَّخْلِ: کچی کھجوروں والا ہونا۔

بَالَجٌ الْقَوْمُ: حق نہ ہوتے ہوئے جھگڑنا اور غالب ہوجانا۔

تَبَالَجًا: باہم انکار کرنا۔

البَالَجُ: زمن جس میں کچھ نہ آگے۔ ج نَوَالِجُ۔

أَبْلَجُ: کچی کھجور۔ کھجور کی ابتدائی حالت کو طلع کہتے ہیں پھر اس کے بعد خلال پھر نَبْلَجُ پھر بُسْرُ پھر زُطْبُ پھر قَمْزُ۔

البَلَجُ: ایک پرندہ جو گدھ سے بڑا ہوتا ہے۔ ج۔ پلحان۔

البَلُوحُ: اندھا کنواں۔ قطع رحمی کرنے والا۔

بَلِجٌ (س) بَلَجًا وَتَبْلَجٌ: تکبر کرنا۔ بیوقوف ہونا۔ صفت (أَبْلَجُ) مَوْتٌ بَلَجَاءٌ وَابْلَجٌ وَابْلَجٌ (بَلَجُ)

البَلَجُ وَالبَلَجُ: ایک قسم کا درخت جس کو شاہ بلوط کہتے ہیں۔

البَلَجَشُ: ایک قسم کا قیمتی جوہر۔

بَلَدٌ (ن) بَلْدًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ شہر بنانا۔ صفت (بَالِدٌ) ج بَلْدَةٌ۔

بَلْدٌ (س) بَلْدًا: کشادہ ابرو ہونا۔ صفت (ابلد) بَلْدٌ (ك) بَلْدًا: سست و کند خاطر ہونا۔ صفت (بَلْدِيٌّ) بَلْدٌ: کمزور رائے والا ہونا۔ کم بہت ہونا۔

الْفَرْسُ: آگے نہ بڑھنا () السَّخَابَةُ: نہ برتنا۔

الرَّجُلُ: بکل کرنا () ة اَلْفِي اصطلاح البَغِيضُ: مسکونہ جگہ کی آب و ہوا کا

<p>البَلَطِيُّ: ایک قسم کی چھل۔ بَلَطَخَ: اپنے آپ کو زمین پر پھینکا۔ الشَّىءُ: جو ڈاکرنا۔ تَبَلَطَخَ: جو ڈاکرنا۔ بَلَعَ (ف): بَلَعًا وَابْتَلَعَ: الشَّىءُ: کھنا۔ بَلَعَهُ وَابْلَعَهُ: کھوانا۔ اور کما جاتا ہے "بَلَعَهُ رِقْعَةً" اس نے اس کو تھوک کھنے کی مدت کی سہلت دی۔ (بَلَعٌ وَتَبَلَعٌ): الشَّيْبُ لِمَنْ زَاوَاهُ: جو چلیا ظاہر ہوتا۔ وَتَبَلَعَهُ: کھوٹ لینا۔ البَلْعَةُ: بجلی کا سوراخ۔ ج بَلَعٌ۔ البَلْعَةُ: بست کھانے والا مرد۔ البَلْعُوعُ: بست کھنے والا۔ المَبْلُوعُ: حلق۔ الجَبْلُوعُ: بست کھانے والا۔ البَالُوْعَةُ وَالبَلَاعَةُ وَالبَلْعُوعَةُ ج بَوَالِيعٍ وَ بَلَالِيعٍ: جوری۔ بدرو۔ بَلَعَمَ: اللَقْمَةُ: کھنا۔ البَلْعَمُ وَالبَلْعُومُ: حلق۔ ج بَلَاعِمٍ۔ البَلْعَمُ: بست کھانے والا۔ تیز کھنے والا۔ بَلَعَهُ (ن): بَلُوْعًا: پینہنا۔ القَمْرُ: چکنا الْعَلَامُ: بلیغ ہونا۔ صفت (بلیغ) مؤنث (بَالِغَةٌ وَبَالِغٌ): العِلَّةُ: تیز ہونا۔ اور کما جاتا ہے "بَلِغٌ وَبِئْسَ كَلَامُكَ" تمہاری جھگڑے میں بست متاثر ہوا۔ بَلِغٌ: الزَّجْلُ: جھٹلایا مشقت ہونا۔ بَلِغٌ (ك): بِلَاعَةٌ: بلیغ ہونا۔ صفت (بلیغ) ج بَلِغَاءً۔ بَلَعَهُ وَابْلَعَهُ: إِلَيْهِ: پینہنا۔ بَلِغٌ عَنَهُ الرِّسَالَةُ إِلَى الْقَوْمِ: پیغام رسائی کرنا۔ بَلِغٌ الْفَارِضُ: تیز دوڑنے کے لیے لگام کو بڑھانا۔ بَالِغٌ: لِمَنْ الْأَمْرُ: مبالغہ کرنا۔ تَبَلِغٌ: بِالشَّىءِ: اکتفا کرنا۔ قناعت کرنا۔ بِهِ الْعِلَّةُ: جیز ہونا۔ تَبَالِغٌ: فِيهِ الْمَرْضُ: سخت ہونا اور اتنا کہ پینہنا الزَّجْلُ لِمَنْ الْكَلَامُ: بھگت بلاغت سے کام لینا۔ الذَّبَاغُ فِي الْجِلْدِ: دباغت کا کمال میں اچھی طرح سے ہونا۔</p>	<p>البَلْسَمُ: گونڈی قسم کا ایک مادہ ہے۔ جس کا زخم پر لپ لگایا جاتا ہے۔ البَلْسَامُ: برسام (ایک بیماری کا نام) البَلْسُنُ: سور۔ سور کے مشابہ ایک قسم کا دانہ۔ البَلْسَانُ: ایک درخت ہے جس کے پھول چھوٹے سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور پتے تیلی کے مانند اور اس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔ البَلْسُونُ: بگلا۔ بَلَسَ: فَلَانًا مِنْ مَالِهِ: لے لینا۔ بَالَسَهُ: کسی پر کوڑ پڑنا۔ حملہ کرنا۔ تَبَلَسَ: الشَّىءُ: پوشیدہ طور سے طلب کرنا۔ تَبَلَسَتِ الْعَنَمُ: کم دودھ والی ہونا۔ البَلْسُوعُ: ایک قسم کا پرندہ۔ ج بَلْسُوعِيٌّ۔ بَلَطَ (ن): بَلَطًا وَبَلَطًا: الدَّارُ: پتھروں کا فرش لگانا۔ "وَبَلَطَ الزَّجْلُ" چلنے میں تھمنا۔ بَلَطَ أَذَنَهُ: گوشہ لکھنا۔ کما جاتا ہے "إِذَا هَفَا ضَبْحَكَ فَبَلَطَلْتُهُ" جب تمہارا پتے کے تو اس کی گوشہ لکھ کر۔ أَبْلَطَ: اللَّصُّ الزَّجْلُ: سب کچھ خرا لینا۔ وَأَبْلَطَ: حجاج و فقیر ہونا۔ بَالَطَ وَتَبَالَطَ: الْقَوْمُ: تلوار سے لڑنا۔ وَبَالَطَهُ: چھوڑ کر ہماگ جانا۔ بَالَطَ لِي أَمْرٌ: مبالغہ کرنا۔ السَّابِغُ: تیراکی میں کوشش کرنا۔ البِلَاطُ: ہموار زمین۔ پتھر کے چو کے جو فرش لگانے کے کام میں آتے ہیں اور اسی سے بِلَاطٌ المَلِكِ ہے۔ بمعنی محل شاہی اور مجازاً بمعنی مجلس شاہی۔ البِلَاطُ: لشکر سے بھاگنے والے۔ البَلُوطُ: ایک بڑا درخت ہے جس کا سہ مونا اور کٹڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی چھال سے دباغت دیتے ہیں اور اس کا پھل کھلیا جاتا ہے۔ بلوط کا پھل۔ بَلُوطُ الْأَرْضِ: ایک قسم کی گھاس ہے جس کے پتے کاسنی کے مانند ہوتے ہیں۔ بَلُوطُ الْمَلِكِ: اخروٹ و شاہ بلوط: ایک قسم کا جنگلی درخت جس کی کٹڑی سخت اور مضبوط پھل گول اور پتیوں کے کنارے کٹاؤ دار ہوتے ہیں۔</p>	<p>علوی بنانا۔ اور اسی سے ہے "خَلِيقَةُ الظُّبَيْدِ" وہ بلیغ جس میں غیر جگہ کے حیوان یا نباتات کو آپ ہو اور کاعاری بنایا جائے۔ أَبْلَدٌ: الْقَوْمُ: شہر میں ہمیشہ رہنا۔ أَبْلَدَةٌ البَلْدَةُ: شہر میں ہمیشہ رکھنا۔ بَالَدٌ: تلوار یا تیزوں سے جنگ کرنا۔ تَبَلَدٌ: سست و کند خاطر ہونا۔ کندہی ظاہر کرنا۔ الْفُوسُ کرنا۔ الزَّجْلُ: دونوں ہاتھوں سے تلی بجانا۔ الضَّبِيحُ: روشن ہونا۔ الْقَوْمُ: غیر آباد شہر میں آباد ہونا۔ المَبْلُودُ: تھمیر۔ البَلْدَةُ وَالبَلْدَةُ: ج بِلَادٌ وَبُلْدَانٌ: ہر ایک جگہ آباد یا غیر آباد۔ البَلْدَةُ: قبر۔ البَلْدَةُ: سینہ۔ کما جاتا ہے "هُوَ وَابِغُ البَلْدَةِ" وہ کشادہ سینہ والا ہے۔ شہر۔ مہمیلی۔ کما جاتا ہے "مَضْرَبٌ بَلْدَتُهُ عَلَى بَلْدَتِهِ" یعنی اپنی مہمیلی کو اپنے سینہ پر مارا۔ البَلْدَانُ: بھرہ و کوفہ۔ البَلُورُ وَالبَلُورُ: ایک قسم کا شیشہ۔ ایک قسم کا سفید و شفاف جو ہر تَبَلُورٌ وَتَبَلُورٌ: بلور کے مشابہ ہونا۔ الْإِبْلِيْزُ وَطَبِيْزُ الْإِبْلِيْزِ: مصر کی وہ مٹی جو دیرائے نیل زمین سے بھلا کر چھوڑا جاتا ہے۔ أَبْلَسَ: بے خبر ہونا۔ کھٹ دل ہونا۔ تمکین ہونا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ: بالوس ہونا۔ فین أَمْرِهِ: متعیر ہونا۔ صفت (بلیش و فینیش) فُلَانٌ: غم کی وجہ سے خاموش ہونا۔ أَبْلَسَهُ: تھمیر کرنا۔ البَلْسُ: بے خبر آدمی۔ البِلَاضُ: ٹاٹ۔ بالوں سے بنا ہوا فرش ج بَلْسُ۔ البِلَاضُ: ٹاٹ بیچنے والا۔ مَا ذُقْتُ عُلُوْمًا وَلَا بَلُوْمًا: یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔ إِبْلِيْسُ: شیطان کا عظیم جنس۔ ج أَبَالِيْسُ وَأَبَالِيْسَةُ۔ بَلِيْسِمٌ: مکروہ چہرہ والا ہونا۔ جھٹلایا برسام ہونا۔ بَلْسَمٌ وَتَبَلْسَمٌ: گھبراہٹ کی وجہ سے خاموش ہونا۔ بَلْسَمٌ: مکروہ چہرہ والا بنانا۔</p>
---	--	--

بَلَى تَبْلِيَةً وَأَبْلَى إِبْلَاءَةً. الْقَوْتُ: يَوْسِيْدُهُ كَرَبًا.

بَالَى مَبَالَاةً وَبِلَاةً وَبَالَةً وَبَالًا. الْأَمْرُ وَبِالْأَمْرِ: بِرُؤْيَا كَرَبًا.

بَالَاهُ: مَقَابِلُهُ بِرُفْعِهِ كَرَبًا. اِيك دوسرے کو گھماتا۔
أَبْلَى: فَلَانَا عَدُوَّهُ: كَسَى كَسَاةً عَدُوِّهِش

كَرَبًا اِدْر اِس كَا قَوْلُ كَرَبًا. مَلَامَتٌ زَاكِل كَرَبًا كَيْلِيَّةً عَدُوِّهِ اِس كَرَبًا _____ فِى الْحَزْبِ بَلَاءَةٌ حَسَنًا: مِيْدَانِ بِنِكِ مِش شِهَابَتِ ظَاہِر كَرَبًا.

_____ فَوَيْسِيَا: قَابِلِ الطَّمِيْنِ قَسَم كَمَا.

تَبَالَاهُ: اِرْزَاكُش كَرَبًا.

اِبْقَى: قَسَم كَمَا _____ اِرْزَاكُش كَرَبًا.

_____ الشَّيْءُ: بِجَاطَا.

اِسْتَبْلَى: اِرْزَاكُش كَرَبًا.

اِبْلُوْلَى: اَلْعُشْبُ: يُوْر اِرْزَاكُش كَرَبًا.

اَلْبَلُوْلَى وَالتَّبْلُوْلَةُ وَالتَّبْلِيَةُ وَالتَّبْلِيَةُ مَعِيْبَةٌ: اِرْزَاكُش: رِج بَلَايَا.

التَّبْلَاءُ: عَمَّ جَوْجَم كُو كَلَاةً. اِرْزَاكُش خَوَا خَيْرِ سَ بُوَا شُرْ سَ.

اَلْبَلُوْلُ وَالتَّبْلِيَةُ: بِرَا نَا بُوَيْسِيْدُهُ: كَمَا جَا تَا سَ "هُوَ بَلُوْلُوْ اِسْتَفَارَ وَبَلِيْهَا" وَهُوَ اِسْتَفَارَ تَجْرِيْبَةً مِش بِرَا نَا بُوَا

سَ. اِيْنِي بِيْزَا تَجْرِيْبَةً كَارِ سَ "هُوَ بَلُوْلُوْ شَرُوْ بَلِيَّةً" وَهُوَ شَرِيْش جَلَا سَ اِدْر اِس بِرْغَاب سَ: رِج اَبْلَاءُ.

التَّبْلِيَّةُ: وَهُوَ اَدْنَى جِس كُو اِس كَ اَلْمَالِكِ كِي قَبْرِ زَنَاةِ جَابِلِيْتِ مِش بَانْدَه دِيَا كَرَبَتِ سَ اِدْر چَارَهِيَا

كُحْمَ غَيْبِ دِيْتِ سَ يِهَا تِك كَ وَهُوَ مَرَجَاتِي تَحِي.

التَّبْلِيَاتُ: مِيْتِ كَ تَابُوْبِ كَ اِرْدُ كَرْدِ نُوْحِ كَرَبَتِ وَالِي عُوْرَتِي.

بَلَى: حَرْفُ تَقْدِيْقِ سَ. بِمَعْنَى هِيَ. اِكْثَرُ اِسْتِعْمَالِ كَ جَوَابِ مِش وَاقِعْ هُو تَا سَ. اِدْر اِهْتِمَامِ كَيْلِيَّةً مَخْصُصَ خَوَا اِس سَ پِيْلِيْ شَيْتِ هُو

يَا مَعْنَى: "يَسِي" اَقَامَ زَيْدٌ: كِيَا زَيْدٌ كَمَا هُوَا. اِس كَ جَوَابِ مِش "بَلَى" كَا مَطْلَبِ سَ كَ هَا كَمَا هُوَا.

"اَسَا قَامَ زَيْدٌ": كِيَا زَيْدٌ هِيَس كَمَا هُوَا. اِس كَ جَوَابِ مِش "بَلَى" كَا مَطْلَبِ يِه سَ كَ هَا كَمَا هُوَا.

سياه چمروں سے بنا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے "طلب الابلق العفوق" یعنی اس نے غیر ممکن چیز کو طلب کیا۔ اس لیے کہ ابلق زکوار عقوق حلد کو کہتے ہیں۔

البلوق والبلوقة: جنگل۔ زمین کا وہ حصہ جہاں کچھ نہ آگے۔ رِج بَلَايِقِ.

البلوقة: صَوْرِي۔ بِدُرُو (بالوصد) مِش اِيك لَفْتِ (سَ)

المُتَبَلِّقُ: سِيَاهِ سَفِيْدِ دَاغُوْنِ وَالَا۔

بَلْفَعٌ: اَلْمَكَانُ: خَلِي هُوَا۔ مَفْتِ (بَلْفَعِ) كَمَا جَا تَا سَ "ذَانِ بَلْفَعٍ" خَلِي مَكَانِ.

التَّبْلَعُ وَالتَّبْلَعَةُ: خَلِي زَمْنِ: رِج بَلَايِقِ (اَلْبَلْفَعُ وَالمَرَاةُ التَّبْلَعَةُ) هِرْ خَيْرِ سَ خَلِي عُوْرَتِ.

التَّبْلَعِي: صَافٍ: كَمَا جَا تَا سَ "مَسْهُمِ اَوْ سِنَانِ بَلْقَعِي" اِيْنِي صَافِ بَحْلِ وَالَا تَجْرِيْبَتِه.

بَلْمٌ: اَلزَّجْلُ: بِرَا كِي بِيَان كَرَبًا.

أَبْلِمَتْ: شَفَقَتْ: سَوِي سَ هُو تَ هُوْتِ وَالَا هُو تَا۔ مَفْتِ (أَبْلِمَ) التَّبْلِمَةُ: هُو تِ كِي سُوْبِنِ.

التَّبْلِمُ: اِيك قَسَمِ كِي چھوٹی پھلی۔

التَّبْلِمَاءُ: بِوَرِ سَ چھاڑی رات۔

بَيْلَةٌ (س) بَلْهًا وَبَلَاهَةً: شَعِيْبِ اَلْحَلِ هُو تَا۔ كَزُوْرِ رَا سَ وَالَا هُو تَا۔ مَفْتِ (أَبْلَهُ) مَوْنِسَتْ بَلْهَاءُ رِج بَيْلَةٌ.

أَبْلَةُ: اَلزَّجْلُ: بِوَرِ قَوْفِ پاتا۔

تَبْلَةٌ: بِوَرِ قَوْفِ هُو تَا۔ حِجْتِ مِش مَاجِزِ هُو تَا۔

_____ اَلظُّرْبِيُّ: اَلغَيْرِ رِيْمَانِي اِدْر پُوچھ پانچھ كَ چَلَا۔ گم شدہ چیز کو ڈھونڈنا۔

بَالْهَةُ: فَرِيْبِ دِي تَا۔

تَبَالَةٌ: بِخِلَافِ بِوَرِ قَوْفِ زَنَا۔

بَيْلَةٌ: چھوڑنے (اسم فعل) سَ

بَلْهِيَّةٌ: اَلغَيْشُ: زَنْدِ كِي فَرَا شِي وَاَسُوْدِي۔ بَلْهَسٌ: تَجْرِي چلانا۔

بَلْهَضٌ: خَوْفِ سَ بھانگنا۔

بَلَانٌ (س) بَلُوْ اَوْ بَلَاءَةُ: اَلزَّجْلُ: اِرْزَاكُش تَجْرِيْبَتِ۔ اِحْتِمَالِ لِي تَا۔

بَلَى (س) بَلَى وَ بَلَاءَةٌ: الْقَوْتُ: يَوْسِيْدُهُ هُو تَا۔ مَفْتِ (بَالِي وَبَلِي)

البَلْعُ وَالتَّبْلُعُ: اَلْبَحْجُ: خَوْشِ بِيَانِ۔ اِحْتِمَالِ كُو بَلْعِي وَالَا۔ كَمَا جَا تَا سَ "هُوَ اَخْمَقُ بَلْعٌ" وَهُوَ اِحْتِمَالِي

بِوَرِ قَوْفِ سَ۔ اِيْسَانِي "هِي حَمَقَةٌ بَلْعَةٌ" اِدْر كَمَا جَا تَا سَ "اَمْرُ اللّٰهِ بَلْعٌ" اللّٰهُ تَعَالَى كَا حَكْمِ نَافِذِ سَ۔

"وَ جَنَشُ بَلْعٌ" هِرْ جَمَدِ كُو بَلْعِي وَالَا لَكْرُ۔ زَجْلٌ (بَلْعٌ مَلْعٌ) حَبِيْبِ مَرُو۔

التَّبْلَعَةُ: اِحْتِمَالِي بِوَرِ قَوْفِ۔ التَّبْلَعَةُ وَالتَّبْلَاغُ وَالتَّبْلِيْعُ: كَزَاوَرِ كِي مَقْدَارِ۔

التَّبْلَاغُ: بِبَيَانِ _____ كَسِي چيز تِك پانچنا۔ كَلِمَتِ: كَتَبِ جِس مِش كَسِي مَسْأَلَةِ كَا حَكْمِ بِيَانِ كِيَا جَا تَا۔ رِج بَلَاغَاتِ۔ التَّبْلَاغَاتِ: جَهْلِ خُوْرِيَا۔

التَّبَالِغُ: سِنِ بُلُوْعِ كُو بَلْعِي وَالَا۔ كَمَا جَا تَا سَ "عَلَامٌ تَبَالِغٌ وَجَارِيَةٌ تَبَالِغٌ وَالتَّبَالِغَةُ" اَمْرُ تَبَالِغٌ نَافِذِ حَكْمِ۔

التَّبَالِغَاءُ: جَاوَرِ كَ پانچنا۔ التَّبَالِغِي وَالتَّبَالِغِي: مَلَانِي اَلغَيْرِ كُو فَسْحِ وَبَلْعِ عِبَارَتِ مِش اِدَا كَرَبَتِ وَالَا۔

اَلتَّبَالِغُ: هِرْ وَهُوَ چيز جِس كُو اِسْتَاوَرِ جَ تِك پانچنا رِجَا يُو۔

التَّبَالِغُ: رُو پے پیسے کی مقدار۔ کسی چیز کی حد و انتہا۔ ج تبالیغ۔

التَّبَالِغُ وَالتَّبَالِغَةُ: چھوٹی رشتی جس کو بڑی رشتی میں باندھیں تاکہ پانی تک پہنچ جائے۔

التَّبْلِغُ: قَدَامِ اَلطَّيْرِ كِي اِسْطِلَاحِ مِش اَخْلَاطِ اِرْبِيْبِ مِش سَ اِيك خَلَطِ كَامِ۔

بَلَقٌ (ن) بَلُوْلًا: جَلْدِي كَرَبًا (_____ وَاَبْلَقٌ) التَّبَابُ: چھت کھول دینا جلدی سے بند کر دینا۔

بَلَقٌ: اَلجَارِيَةُ: بَكَارَتِ زَاكِل كَرَبًا۔ بَلَقٌ (س) وَبَلَقٌ (ك) بَلَقًا وَاَبْلَقٌ وَاِبْلَقٌ وَاِبْلَاقٌ وَاِبْلُوْلُقٌ: سِيَاهِ اِدْر سَفِيْدِ دَاغُوْنِ وَالَا هُو تَا۔ مَفْتِ (اَبْلَقِ) مَوْنِسَتْ بَلْقَاءُ: رِج بَلَقٌ۔

بَلَقٌ (س) بَلَقًا: تَحْمِيْرِ هُو تَا۔ شَشْرُ رُو تَا۔ اِبْلَقٌ: التَّبَابُ: ہالک کھانا۔

اِبْتَلَقُ: چمکانا۔ التَّبَلِقُ: سَنَكِ مَرْمَرِ: بِيَا خِيْمَرِ۔ ہاون کا خیمہ (_____ وَالتَّبَلِقَةُ) سِيَاهِي وَسَفِيْدِي۔

اَلْاَبْلَقُ الْقَوْتُ: سَمُوَالِ بِنِ عَارِيَا كَا قَلْعِ: جَوْسِفِيْدِ

<p>در بیان۔ البہار: خوبصورتی۔ ایک قسم کا خوشبودار پھول جس کو "عَیْنُ البَقْرِ" (گاؤ چشم) بھی کہتے ہیں۔</p>	<p>بہج (س) بَہَجًا بہ: خوش ہونا۔ صفت (بہج) ونبہج بہج (ک) بَہَجًا وَبَہَجَانًا: خوبصورت ہونا۔ صفت مذکر (بہج) اور صفت مؤنث (منہج) (منہج) بہجہ: خوبصورت ہونا۔</p>	<p>قلب شمالی کی جانب دکھائی دیتے ہیں۔ اور اسی کے اندر نباتات نعش الصغریٰ ہیں۔ النبیئة: عمارت۔ خانہ کعبہ۔ (النبیئة الخضراء) آسمان۔ نبیئات الظریق: چھوٹے چھوٹے راستے جو بڑے راستے سے نکلے ہوں۔ اور اسی سے ہے "دَعُ بَنِيَابِ الظریق" یعنی اپنے اوپر بڑے بڑے امور کو لازم سمجھو اور کمزور فریب کو چھوڑ دو۔</p>
<p>البہار۔ بت۔ ابابیل۔ دمنی ہوئی روٹی۔ ایک قسم کی سفید مچھلی۔ البہیزة: موٹے سرینوں والی شریف عورت۔ ج اٹھائیو۔</p>	<p>بہجہ: خوبصورت ہونا۔ بہجہ: خوبصورتی میں مقابلہ کرنا اور فخر کرنا۔ البہج ونبہج: البہج ونبہج: خوش ہونا۔ تبہج: خوبصورت ہونا۔</p>	<p>المنائی۔ شرافتیں۔ حُرُوفُ المنائی: حروف خمی۔ النبیئة فرزندى۔</p>
<p>الانبہر: بیٹھ۔ کہا جاتا ہے "فَلَا نَ شَدِيدُ الانبہر" تکان مضبوط بیٹھ والا ہے۔ گردن کی شہ رگ۔ و (الابہران) دور گئیں ہیں جو قلب سے نکلتی ہیں اور انہی سے ساری شریان جسم میں پھینکی ہوئی ہیں اور اسی سے ہے "مَا زَالَ يُوَاجِعُهُ الْاَلَمُ حَتَّى قَطَعَ اَنْبَهْرَهُ" اس کو تکلیف بار بار ہوتی رہی یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیا۔</p>	<p>البہجۃ: خوبصورتی۔ ترو تازگی۔ خوشی یا ظہور خوشی۔ البہج۔ خوش۔ التواجد: بلائیں۔ سختیاں۔ البہجدل: بھوکا پھر۔ البہجدلۃ: پستان کی جڑ۔ بہزہ (ف) بہزہ: غالب ہونا۔ غلبت میں بڑھ جانا۔ فَلَا نَا: بہتان لگانا۔ الحمل فلانا: بوجھ کی وجہ سے ہانپنے لگنا۔</p>	<p>المنائی۔ شرافتیں۔ حُرُوفُ المنائی: حروف خمی۔ النبیئة فرزندى۔</p>
<p>الانبہر: پرندوں کے پر خوانی اور کھلی کے درمیان ہوتے ہیں۔ پیلے پر دوں کو قوادم کہتے ہیں پھر اس کے بعد والوں کو مناکب اس کے بعد والوں کو ابہار اور بالکل اخیر والوں کو کٹلی کہتے ہیں۔</p>	<p>التواجد: بلائیں۔ سختیاں۔ البہجدل: بھوکا پھر۔ البہجدلۃ: پستان کی جڑ۔ بہزہ (ف) بہزہ: غالب ہونا۔ غلبت میں بڑھ جانا۔ فَلَا نَا: بہتان لگانا۔ الحمل فلانا: بوجھ کی وجہ سے ہانپنے لگنا۔</p>	<p>المنائی۔ شرافتیں۔ حُرُوفُ المنائی: حروف خمی۔ النبیئة فرزندى۔</p>
<p>البہار: پرندوں کے پر خوانی اور کھلی کے درمیان ہوتے ہیں۔ پیلے پر دوں کو قوادم کہتے ہیں پھر اس کے بعد والوں کو مناکب اس کے بعد والوں کو ابہار اور بالکل اخیر والوں کو کٹلی کہتے ہیں۔</p>	<p>التواجد: بلائیں۔ سختیاں۔ البہجدل: بھوکا پھر۔ البہجدلۃ: پستان کی جڑ۔ بہزہ (ف) بہزہ: غالب ہونا۔ غلبت میں بڑھ جانا۔ فَلَا نَا: بہتان لگانا۔ الحمل فلانا: بوجھ کی وجہ سے ہانپنے لگنا۔</p>	<p>المنائی۔ شرافتیں۔ حُرُوفُ المنائی: حروف خمی۔ النبیئة فرزندى۔</p>
<p>البہار: پرندوں کے پر خوانی اور کھلی کے درمیان ہوتے ہیں۔ پیلے پر دوں کو قوادم کہتے ہیں پھر اس کے بعد والوں کو مناکب اس کے بعد والوں کو ابہار اور بالکل اخیر والوں کو کٹلی کہتے ہیں۔</p>	<p>التواجد: بلائیں۔ سختیاں۔ البہجدل: بھوکا پھر۔ البہجدلۃ: پستان کی جڑ۔ بہزہ (ف) بہزہ: غالب ہونا۔ غلبت میں بڑھ جانا۔ فَلَا نَا: بہتان لگانا۔ الحمل فلانا: بوجھ کی وجہ سے ہانپنے لگنا۔</p>	<p>المنائی۔ شرافتیں۔ حُرُوفُ المنائی: حروف خمی۔ النبیئة فرزندى۔</p>
<p>البہار: پرندوں کے پر خوانی اور کھلی کے درمیان ہوتے ہیں۔ پیلے پر دوں کو قوادم کہتے ہیں پھر اس کے بعد والوں کو مناکب اس کے بعد والوں کو ابہار اور بالکل اخیر والوں کو کٹلی کہتے ہیں۔</p>	<p>التواجد: بلائیں۔ سختیاں۔ البہجدل: بھوکا پھر۔ البہجدلۃ: پستان کی جڑ۔ بہزہ (ف) بہزہ: غالب ہونا۔ غلبت میں بڑھ جانا۔ فَلَا نَا: بہتان لگانا۔ الحمل فلانا: بوجھ کی وجہ سے ہانپنے لگنا۔</p>	<p>المنائی۔ شرافتیں۔ حُرُوفُ المنائی: حروف خمی۔ النبیئة فرزندى۔</p>
<p>البہار: پرندوں کے پر خوانی اور کھلی کے درمیان ہوتے ہیں۔ پیلے پر دوں کو قوادم کہتے ہیں پھر اس کے بعد والوں کو مناکب اس کے بعد والوں کو ابہار اور بالکل اخیر والوں کو کٹلی کہتے ہیں۔</p>	<p>التواجد: بلائیں۔ سختیاں۔ البہجدل: بھوکا پھر۔ البہجدلۃ: پستان کی جڑ۔ بہزہ (ف) بہزہ: غالب ہونا۔ غلبت میں بڑھ جانا۔ فَلَا نَا: بہتان لگانا۔ الحمل فلانا: بوجھ کی وجہ سے ہانپنے لگنا۔</p>	<p>المنائی۔ شرافتیں۔ حُرُوفُ المنائی: حروف خمی۔ النبیئة فرزندى۔</p>
<p>البہار: پرندوں کے پر خوانی اور کھلی کے درمیان ہوتے ہیں۔ پیلے پر دوں کو قوادم کہتے ہیں پھر اس کے بعد والوں کو مناکب اس کے بعد والوں کو ابہار اور بالکل اخیر والوں کو کٹلی کہتے ہیں۔</p>	<p>التواجد: بلائیں۔ سختیاں۔ البہجدل: بھوکا پھر۔ البہجدلۃ: پستان کی جڑ۔ بہزہ (ف) بہزہ: غالب ہونا۔ غلبت میں بڑھ جانا۔ فَلَا نَا: بہتان لگانا۔ الحمل فلانا: بوجھ کی وجہ سے ہانپنے لگنا۔</p>	<p>المنائی۔ شرافتیں۔ حُرُوفُ المنائی: حروف خمی۔ النبیئة فرزندى۔</p>
<p>البہار: پرندوں کے پر خوانی اور کھلی کے درمیان ہوتے ہیں۔ پیلے پر دوں کو قوادم کہتے ہیں پھر اس کے بعد والوں کو مناکب اس کے بعد والوں کو ابہار اور بالکل اخیر والوں کو کٹلی کہتے ہیں۔</p>	<p>التواجد: بلائیں۔ سختیاں۔ البہجدل: بھوکا پھر۔ البہجدلۃ: پستان کی جڑ۔ بہزہ (ف) بہزہ: غالب ہونا۔ غلبت میں بڑھ جانا۔ فَلَا نَا: بہتان لگانا۔ الحمل فلانا: بوجھ کی وجہ سے ہانپنے لگنا۔</p>	<p>المنائی۔ شرافتیں۔ حُرُوفُ المنائی: حروف خمی۔ النبیئة فرزندى۔</p>

الْبُهْمُ: جنتی سے بہت دھکیلنے والا۔
بُهْمٌ (ف) بُهْمًا عَلَيَّهِ: دلیری کرنا۔
بُهْمٌ يَوْمَئِذٍ (ف) بُهْمًا: خوشی سے متوجہ ہونا۔
مُتَلَقٌّ يَوْمَئِذٍ _____ بِبُهْمٍ يَوْمَئِذٍ: اپنے کیلئے ہاتھ
بوجھا _____ لِلْبُهْمَاءِ: رونے کیلئے آادہ و تیار
ہونا _____ عَثَّةً: کھود کرید کرنا۔

بُهْمٌ وَبُهْمٌ: الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔
الْبُهْمُ: تزکوکل (گوکل ایک دو کا نام ہے)
رَجُلٌ بُهْمٌ: بھاشا بھاش مرد۔
بُهْمٌ (س) بُهْمًا: بیاسا ہونا۔
الْبُهْمُ: بیاس۔

بُهْمٌ وَبُهْمٌ: کپڑے اتار کر جوئے کی
بازی پر لگانا۔ بُهْمٌ مِنَ الْقَوْمِ: طمیدہ کر
دینا۔ کمال دینا۔
الْبُهْمُ: بہت سخت۔
بُهْمَةٌ (ف) بُهْمًا وَبُهْمًا: الْحَمْلُ أَوْ
الْأَمْرُ: یو جمل کرنا۔ باعث مشقت ہونا۔ اَنْهَضَ
خَوَاضَهُ: بھرونا۔
الْبَاهِظَةُ: مؤنث۔ باعث مشقت و تکلیف۔
مصیبت۔

الْمَبْهُوظُ: طاقت سے زیادہ تکلیف دیا ہوا۔
الْفَرْقُ الْمَبْهُوظُ: مغلوب۔
بُهَيْغٌ (ف) بُهْيَغًا: الرَّجُلُ: سونا۔ صفت
(باہغ)
الْبُهَيْقُ: برص کی بیماری کے علاوہ جسم پر سفید
وارغ۔

بُهَيْقٌ الْخَبْرُ: چھپرہ آگی ہوئی ایک قسم کی
گھاس جو کالی کی مانند ہوتی ہے۔
بُهَيْكٌ يَهَيْكُهُ فِي الْعَصَلِ: جلدی کرنا۔
الْبُهَيْكُ: نازک اندام بزرگوشٹ جو ان۔
مؤنث۔ بُهَيْكَةٌ: سَنَابُ بُهَيْكٌ: جئی جوانی۔
الْبُهَيْكُنْ: نازک اندام بزرگوشٹ جو ان۔
مؤنث۔ بُهَيْكَةٌ: جی بھایکن۔ سَنَابُ بُهَيْكُنْ: جئی
تروادہ جوانی۔

بُهَيْلَةٌ (ف) بُهَيْلًا: اللّٰهُ: لعنت کرنا۔
_____ وَابْتُهَلَّ: جھوڑنا۔ (_____ وَاسْتَهَلَّ)
الْوَالِي زَعِيَّتَهُ: بلا روک ٹوک چھوڑ دینا۔
بُهَلَّتِ الثَّاقِفَةُ: اوشنی کے تھمن سے بندش

کھول دینا اور پتہ کو دودھ پینے دینا۔
ابْتَهَلَّ: اِلَى اللّٰهِ: گزرا کر دعا کرنا۔
بَاهِلٌ: بَغَضُهُمْ بَغْضًا: ایک دوسرے پر لعنت
کرنا۔
تَبْتَهَلُّوا وَتَبَاهَلُّوا: باہم لعنت کرنا۔
ابْتَهَلُّوا: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔
التَّهْلَعُو التَّهْلَةَ: لعنت۔
الباهل: بھیر کسی کام کے آنے والے والا۔ بھیر
ڈھرنے کے چراغے والا۔ بے تحصار۔ ثاقفة باهل:
وہ اوشنی جس کے تھمن پر بندش نہ ہو۔ ج نہ بھل و
بُهَلَّ: مؤنث۔ باهلة۔ الباهلة: بیوہ عورت۔
التَّهْلُوْلُ: بہت ہنسنے والا۔ ہنسوڑ۔ جامع نفاصل
سرور۔ ج نہ بھالینل۔
التَّهْلُوْلَانِ: مداری۔ رسی پر چلنے والا۔
بُهْلَقٌ يَهْلَقُهُ: تکبر کرنا۔ ڈیک مارنا۔ رو برو گفتگو
کرنا۔ بھوت بولنا۔
بُهْلَقٌ: جھوٹ بولنا۔
التَّهْلِقُ: جھوٹی باتیں۔
التَّهْلِقُ: سختی دینا۔
بُهْمٌ بِالْمَكَانِ: مستقل اقامت کرنا۔
_____ البُهْمُ: ماں سے علیحدہ کر کے چراغا۔

الْبُهْمُ: النَّابُ: بند کرنا _____ الْمَكَانُ:
بھمی گھاس والی ہوتا۔ (_____ وَتَبُهْمٌ
وَاسْتَبُهْمٌ) الْأَمْرُ عَلَيَّهِ: مشتہد ہونا۔ دشوار ہونا۔
أَسْتَبُهْمُ عَلَيَّهِ: شور مچانے کی وجہ سے گفتگو پر
قادر نہ ہونا۔

التَّهْمُ وَالتَّهْمُ وَالتَّهْمُ: جگائے، بھیر، بکری کے
بچے۔ وَاحِدٌ التَّهْمَةُ التَّهْمَةُ (تہمہ)
التَّهْمَةُ: دلیری جس پر کوئی قابو نہ پاسکے۔ چھری
چٹان۔ سخت و مشکل کام۔ ج نہ ہم۔ التَّهْمُ: مشکل
امور۔
التَّهْمِيُّ: جو کی مانند ایک قسم کی نباتات۔
التَّهْمِيُّ: کالا۔ فَرْسٌ تَهْمِيٌّ: ایک ہی قسم کا
گھوڑا۔ لَيْلٌ تَهْمِيٌّ: پوری تاریک رات۔ ج نہ ہم و
نہم۔
التَّهْمَةُ: چارپایہ۔ ج نہ ہم۔ التَّهْمَةُ: ہر وہ
جس میں قوت کو یابی نہ ہو۔
الْأَهْمُ: گونگا۔ ج نہ ہم۔ خاموش۔

بُهْمٌ (س) بُهْمًا: بہت خوش ہونا۔
التَّهْمَانَةُ: اچھی طبیعت کی عورت جو گفتگو
وغیرہ میں نرم ہو۔ ج نہ تہمانات۔
التَّهْمِيُّ: ناستران۔
تَبُهْمَسُ: ناز سے چلنا۔
التَّهْمَسُ: شیر۔
بُهْمَانٌ (ان) بُوَيْهْمِيٌّ (س) بُوَيْهْمِيٌّ (ک) بُوَيْهْمِيٌّ: حسین و
خوبصورت ہونا۔ تخریف ہونا۔ صفت (بھمی)
مؤنث۔ بُوَيْهْمِيَّةٌ بُوَيْهْمِيٌّ: خوبصورتی میں غالب ہونا۔
بُهْمِيٌّ (س) بُهْمِيٌّ: التَّهْمِيُّ: ویران ہونا۔ خالی
ہونا۔
بُهْمِيٌّ: التَّهْمِيُّ: کشادہ کرنا۔
بَاهَاةٌ فِي الْحُسْنِ: حسن و خوبی میں مقابلہ پر
فخر کرنا۔
أَبُهْمِيٌّ - خوبصورت چہرہ والا ہونا _____
الْإِنَاءُ: خالی کرنا۔ الخَيْلُ: جگ کے لیے کام نہ
لینا۔
إِبْتَهْمِيٌّ: بہ: فخر کرنا۔
تَبَاهَهُوا: باہم فخر کرنا۔
التَّهْمُو: مکان یا خیمہ کے آگے کا کمرہ جو مہمان
وغیرہ کے قیام گاہ کا کام دے۔ ملاقات کا کمرہ ج
أَهْمَاءٌ وَنَهْمٌ وَبُهْمِيٌّ۔
بَاءٌ بِيَاءٌ بَوَاءٌ أ- إِلَيْهِ: لوٹنا۔ بَاءٌ هُ وَ بَاءٌ بِهِ:
لوٹنا _____ بِالْحَقِّ أَوْ بِالذَّبِّ: اقرار کرنا
_____ فَلَانٌ بَفْلَانٍ بَوَاءٌ: بدلے میں قتل کیا
جانا۔ کہا جاتا ہے "ذمٌ بَوَاءٌ ذمٌ" خون خون کے
برابر۔ بوعہ: یعنی ان لوگوں میں سے ہو جا جن کو
اس کے بدلے میں قتل کیا جائے اور اسی سے
مسلل کا قول بھیر کیلئے ہے۔ "بُوَيْهْمَسُ نَعْلُ
كَلْبِي" یعنی کلب کے جوتے کے لئے کے
برابر ہو جا۔
بَوَاءُ الْمَكَانِ: اترنا۔ نازل ہونا _____

الأنثر: مخلوط ہونا۔ القوم و انہم: رائے میں گریزی ہو جانے کی وجہ سے کوئی راستہ نہ پانا۔
 الترحل: حرام ہونا۔
 انباءك: علیہ السلام۔
 بان (ن) انبؤا و متبالا: چیشاب کرنا۔
 بؤلکو و ابائلہ: چیشاب کرنا۔
 البال: دل۔ کہا جاتا ہے "ما عطلو الامم پتالی" یہ معاملہ میرے دل میں نہیں گزرا۔ حال و شان۔ کہا جاتا ہے "فلان و زینب البال" فلاں آسودہ حال ہے۔ خیال۔ کہا جاتا ہے "تخاسف البالی" جس چیز کا اہتمام کیا جائے۔ کہا جاتا ہے "انہس ہذا امن پتالی" یعنی یہ ان چیزوں میں سے نہیں جن کی میں پروا کرتا ہوں۔ "و امؤذ و تالی" یعنی ایسا کام جو قابل اہتمام ہو۔ "وما تالک" یعنی تمہاری کیا حالت ہے۔
 البال: سندر کی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی۔
 وبل مچھلی۔
 البائلہ: شیشی۔ خوشبو کی ڈبیہ۔
 البؤل: پیشاب۔ البول: لڑکا۔ عدد کثیر۔
 بؤل الصبؤز: شراب۔
 البؤلہ: لڑکی۔
 البؤال: ایک بیماری جس میں پیشاب کثرت سے آتا ہے۔
 البؤلہ بہت پیشاب کرنے والا۔
 البؤلہ: وہ چیز جو پیشاب لانے کا سبب ہو۔
 البؤلہ: پیشاب کرنے کا برتن۔
 البؤلینصہ أو البؤلینصہ: رسید۔ ہنری۔ ج بؤالص۔
 البؤلینس: پولیس۔ اس کی عربی شذیطی اور جملو از ہے۔
 البؤہو البؤلہ: اوج۔ اہتمام (دونوں لفظ کر و مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہیں)
 بان (ن) انبؤا: فضل و زیادتی میں غالب ہونا۔
 البؤن و البؤن: ذوری۔ فصل۔ دو چیزوں کے درمیان فرق۔
 البؤنہ: جمعوتی تہی۔
 البان: ایک قسم کا درخت جس کے پتے بید کے پتے کی طرح ہوتے ہیں اور اس کے پھل

جہات کیلئے حرب المل ہے۔
 باعۃ اللداری: گھر کا گمن۔
 البیع: دور دور قدم رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے "فروض بیع" دور دور قدم رکھنے والا گھوڑا۔
 بؤعاء الطیب: خوشبو کی مرکب۔
 باعہ (ن) بؤعاً: غلبہ کرنا۔ برابر ہونا۔ کہا جاتا ہے "انک لعالم لا تباغ" یعنی تو ایسا عالم ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔
 تبؤغ: اللذم پہ: جوش مارنا۔ فلان علیہ: غالب ہونا۔
 البؤعاء: خاک۔ غبار۔ بؤعاء الطیب: خوشبو کی مرکب۔
 باقی (ن) بؤفا و بؤؤفا: لڑائی جھگڑا بپا کرنا۔
 القوم: بیوفائی کرنا۔ چوری کرنا۔ باقی الباقیۃ القوم: مصیبت پہنچنا۔ باقی القوم علیہ: اکٹھے ہو کر ظلم قتل کرنا۔ باقی الشقیۃ: ڈوبنا۔ باقی الشئی: غالب ہونا۔ ظاہر ہونا۔ خراب ہونا۔
 بؤق: لہجہ البؤق: بگل بجانا۔
 تبؤق: جموت ہونا۔ الزباء لہجہ الماشیۃ: جانوروں میں دبا چیلنا۔
 انباءك: علیہم الشؤ: برائی و مصیبت پہنچنا۔
 البؤق: بگل۔ تری۔ زنگھار۔ ج ابواق و یبقان و بؤقات۔ اور کہا جاتا ہے "جاء بالبؤق و نقح لہ البؤق" اس نے ڈکے کی چوٹ اعلان کیا۔ نیز اس معنی میں آتا ہے کہ بیوہ کا اور لایق کھنگو کی۔
 البؤلہ: بارش کی سخت بوجھار۔ ج بؤق۔
 الباقیۃ: سگاپات کا مصلح باقیات۔
 الباقی: من المتاع: بے قیمت۔ کہا جاتا ہے "متاع باقی" بے قیمت مسلمان۔
 الباقیۃ: مصیبت۔ شر و فساد۔ کہا جاتا ہے "زفقت عنک باقیۃ فلان" یعنی میں نے تم سے فلاں کی لالی ہوئی مصیبت کو اٹھایا ج بؤالیق۔
 البؤاق: بگل بجانے والا۔
 البؤق: کلام باطل۔
 البؤلینصاء: ایک قسم کے درخت کا نام۔
 بان (ن) بؤتکا: المتاع: پچھایا خریدنا۔

ہے۔
 البؤیض و البؤیضی: محتاج جس کے بہت بال بنتے ہوں۔
 باصۃ (ن) بؤصا: سابق ہونا۔ آگے بڑھنا۔
 حنہ: بھاک کر چھینا۔ فی الأنثر: اصرار کرنا۔
 بؤص: میدان میں آگے بڑھنا۔
 الشئی: صاف رنگ والا ہونا۔
 البیاض: متبعض ہونا۔
 البؤص: ذوری (۔ البؤص) رنگ۔ صورت شکل۔ چوڑا۔ رشیم یا کتل۔ ج ابؤاص البؤصی: ایک قسم کی کشتی۔
 ظریف (بائض) دور کاراست۔
 باص (ن) بؤصا: جمائیں پڑنے کے بعد خوب صورت چرو والا ہونا۔ بالمکان: اقامت کرنا۔
 باط (ن) بؤطا: دولت مندی کے بعد محتاجی یا معزز ہونے کے بعد ذلیل ہونا۔
 البؤطہ: کھالی۔ کپڑے وغیرہ میں گول نشہ۔ ج بؤوط۔
 باط (ن) بؤطا: لاغری کے بعد موٹا ہونا۔
 باع (ن) بؤعاً: علیہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ الفروض: دور دور قدم ڈالنا۔
 (۔ و تبؤع) العنبل: باع سے اندازہ کرنا۔ دیکھئے لفظ باع و تبؤع للتمساعی: باع پھیلانا۔
 انباءك: البؤق: بہنا۔ الحیۃ: اچھلنے کے لیے لسا ہونا۔ الشجاع من الصف: بہادر کا صف سے لکنا۔ الترحل الیہ: کشادہ روی سے بڑھنا۔ انباءك لہ فی بضاعۃ: بیچنے میں سولت برتا۔
 المتاع: دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار کہا جاتا ہے "ظونل المتاع و زحبت المتاع" یعنی فیاض۔ "و قھصیر المتاع و ضیق المتاع" یعنی پھیل جائز۔ ج ابؤاع و باعات و بیعان۔
 البؤع: مع دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار۔ اور اس سے مش ہے "لا یعرف کؤعۃ من بؤعہ" وہ کوہ اور بوہ کو نہیں پچھانتا۔ پوری

سے خوشبودار مثل کلتا ہے اور روج طویل ہونے کے اس سے قدر کو تشبیہ دی جاتی ہے۔

البؤان والبؤان : شہر گمراہ کرنے کا ستون ج اَبُوْنَهُ وَبُؤَانُ وَبُؤَانُ

بَاہ (فان) بُوْهًا لِلشَّيْءِ : سمجھا۔ کہا جاتا ہے "ماہیئٹ و ماہیئٹ الامر" میں نے معاملہ کو نہیں سمجھا۔

بَاهَةُ الدَّارِ : گھر کا محن۔
البؤہ : البؤہ الوبی کا نام ایک پرندہ۔

البؤہ : البؤہ کا مؤنث۔ بیوقوف مرد۔ روات میں ڈالنے کے لیے دھکی ہوئی خشک اون۔ اور اگر روات میں ڈال دیں تو اس کو "لیقہ" کہتے ہیں۔

البؤ : اونٹنی کا بچہ۔ اونٹنی وغیرہ کے خررہ پتہ کی کھال جس میں گھاس وغیرہ بھر کر اس کی ماں کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ دودھ دوسنے میں آسانی ہو۔

بَوِيٌّ بَيَوِيٌّ بَيْتًا : دوسرے کے فعل کی نقل کرتا۔

البؤی : تھید۔ نقلی۔ آرزو۔ طبیعت۔ الم۔
البؤیب : تابان۔ حوض کی تالی۔

البؤیب : بستہ جو لوگوں کو پانی پلا تا پھرے۔
بات (ض س) بَيْتًا وَبَيْتًا وَبَيْتًا وَبَيْتًا

مَبَانًا. فِي الْمَكَانِ. شَبِّ بَاشِي كَرْنَا _____
فَلَانًا وَبِهِ وَعِنْدَهُ : کسی کے پاس رات میں آنا۔
کہا جاتا ہے "بَاتِ بَفَعْلٍ كَذَا" جبکہ کسی کام کو رات میں کرے جیسا کہ جب دن میں کرے تو کہا جاتا ہے "ظَلَّ بَفَعْلِهِ كَذَا"۔

بَاتٌ بَيْتًا بَيْتًا. الرَّجُلُ : نکاح کرنا _____
الرَّجُلُ : نکاح کرنا۔

بَيْتِ الشَّيْءِ : رات میں کرنا _____ العَدُوِّ :
شب خون ڈالنا _____ البَيْتِ : گھر بنانا _____

زَايَةً : رات میں سوچ بچار کرنا۔
بَيْتِ الشَّيْءِ : اندازہ کیا جانا۔

أَبَاتُهُ : شب باشی کرنا۔ کہتے ہیں۔ أَبَاتُهُ اللَّهُ أَحْسَنُ آيَةً : بسمتی آیت۔

إِسْتَبَاتِ : رات کی خوراک میا کرنا۔
البَيْتِ : بیٹوں و بیبات و بیبات و بیبات و

آبَابِت۔ اور بقول بعض بیبوتات اور آبابیت اشرف کیلئے مختص ہیں۔ تفسیر مینت : گھر مکان،

شرافت۔ بَيْتُ الرَّجُلِ : اہل و عیال بَيْتُ الشَّيْءِ : وہ معنوم کلام جو دو مصرعوں پر شامل ہو۔
بَيْتُ الْقَصِيدَةِ : قصیدہ کے بحرین اشعار یا وہ شعر جو شاعری غرض کو مختص ہو۔

بَيْتُ الْمُقَدَّسِ أَوْ الْبَيْتُ الْمُقَدَّسُ : ملک شام کے ایک شہر کا نام۔ بَيْتُ الْمَالِ : حکومت اسلامی کا خزانہ۔ بَيْتُ الْعُنْكَبُوتِ : کڑی کا جالا۔
الْبَيْتُ الْعَيْتِيُّ أَوْ الْبَيْتُ الْحَزَامِ : کعبہ معظمہ۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ جَارِي بَيْتِ بَيْتٍ" وہ میرا پڑوسی ہے جس کا گھر میرے گھر سے ملا ہوا ہے۔
البیبات : شب خون ڈالنا۔

البیت و البیتہ : رات کی خوراک۔ کہا جاتا ہے "لَهُ بَيْتٌ لَيْلِيَةٌ" اس کے پاس ایک رات کی خوراک ہے۔

البیبات و البیبتوں : باسی۔ ہر وہ چیز جس پر رات گزر چکی ہو اور وہ ٹھنڈی ہو چکی ہو۔ کہا جاتا ہے "أَسْقِي مِنْ بَيْتِ السَّقَاءِ" یعنی مجھ کو اس دودھ میں سے پلاؤ جو رات کو دہا گیا ہو اور مشکیزہ میں رکھا گیا ہو یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو گیا ہو۔

البیبتوں : ایسا معاملہ جس کی وجہ سے صاحب معاملہ رات سوچ بچار میں گزارے۔ مِنْ بَيْتِ بَيْتَةٍ : مضبوط دانت۔

المیبت : رہنے کی جگہ۔ شب باشی کی جگہ۔
المیبتہ : مِنَ الْبَيْتِ : گھر اور شوہر والی عورت۔

المُسْتَبِيْتِ : فقیر۔
بَيْحٌ تَبْيِيْحًا : بچے سے عید ملانا۔

اللحْمِ : کانا اور تقسیم کرنا۔
البیباح و البیباح : ایک قسم کی چھوٹی مچھلی۔

البیباحہ : مچھلی کا جال۔
البیبحان : راز ظاہر کرنے والا۔

بَادِيْبِدٍ تَيْدًا وَيَا ذَا وَيُوْذَا وَيُوْذَةً : ہلاک ہونا۔ بَادِيْبِ الشَّمْسِ : یوں ہونا۔ غروب ہونا۔

أَبَادَهُ : ہلاک کرنا۔
بَيْدٌ : بسمتی غیر اس کی بیشہ اضافت اس جملہ کی طرف ہوتی ہے جس پر اُن داخل ہوتا ہے جیسے

"فَلَانَ كَثِيرُ الْمَالِ تَيْدَانَهُ بِخَيْلٍ" بسمتی غَيْرَ أَنَّهُ بِخَيْلٍ

البَيْدَاءُ : بیابان۔ ج بیدو بیدوات۔
البَيْدَاءَةُ : فوج کے ہمارے۔ واحد (بیدادی)
البَيْدَانَةُ : گدھی۔ جنگلی گدھی۔
بَيْدَارٌ : الجَنْفَةُ : ڈھیر لگانا۔

البَيْدَرُ : کھلیاں۔ خرمن۔
البَيْدَقُ : ایک شکاری پرندہ۔
البَيْدَقُ : سفر کار ہنسا پیدل چلنے والا۔ اور اسی سے بیدق الشطرنج ہے۔ یعنی شطرنج کا مہرہ جس کو یہ کہتے ہیں ج بیداق۔
البَيْزِقُ : جھنڈا۔ ج بیدارق۔ و (البیزقُ قدر) جھنڈا بردار۔

البیزار : باز رکھنے والا۔ کاشکار۔ ج بیزاروہ۔
البیر ذرة : کاشکاری۔ بازی رکھوالا۔

بَيْسٌ : اللُّهُ وَجْهَهُ : خوبصورت بنانا۔
أَبْيَاشٌ : الشَّجَرَةُ : بڑ بیٹھے رہنا۔

البیش : ایک قسم کی زہریلی گھاس۔
البیش : قحالہ۔ گڑھا جس میں پودہ لگایا جاتا ہے۔ ج ابیاش۔

البیض و البیض : تنگی۔ سختی۔ کہا جاتا ہے "وَقَفُوا فِي حَيْضِ بَيْضٍ" وہ لوگ تنگی اور سختی میں پڑ گئے۔

بِاضٌ (ض) بَيْضًا. الظَّائِرُ : اڑے رہنا۔
صفت مذکر (بایض) مؤنث بایض۔ ج بَوَائِضُ

اور اسم مبالغہ (بویض) ج بَيْضٌ وَبَيْضٌ _____
بِاضٌ الْحَوْرُ : گرمی سخت ہونا _____ فَلَانًا :

سفیدی میں غالب ہونا _____ السَّحَابُ :
بارش ہونا _____ بِالْمَكَانِ : اقامت کرنا۔

بَيْضَةٌ : سفید کرنا۔ اور اسی سے "تَبْيِيضُ الْكِبَرِيَّتِ" ہے۔ بسمتی مسودہ کو صاف کر کے لکھنا اور "تَبْيِيضُ الْاَلَانِيَةِ" بسمتی قلعی کرنا۔ اور کہتے ہیں "بَيْضُ اللُّهُ وَجْهَهُ" اللہ اس کے چہرہ کو روشن کرے۔

أَبَاحَتِ : المَزَاةُ : سفید پتے چننا۔
بَانِضَةٌ : سفیدی میں غالب ہونے پر مقابلہ کرنا۔

إِبْقَاضٌ : خود پھنسا _____ الْقَوْمُ : فنا کر دینا۔

قوم کے میدان میں داخل ہوتا۔

بَيْضٌ وَابْيَاضٌ سفید ہونا۔

البَيْضُ: سفیدی۔ دودھ۔ بِيَاضُ الْعَيْنِ:

آنکھ کی سفیدی۔ بِيَاضُ الْبَيْضَةِ: انڈے کی

سفیدی۔ بِيَاضُ الْجِلْدِ: بے بال چڑا۔ بِيَاضُ

الْوَجْهِ: شمرت و نیک نامی۔ بِيَاضُ النَّهَارِ: دن

کی روشنی۔ الْيَوْمُ: تمام دن۔

الْأَرْضُ: عمارت سے خالی زمین۔

الْبَيْضَانُ: گوردہ کی چرئی۔ اور کتے ہیں فَلَانٌ يَلْبَسُ

السَّوَادَ وَالْبَيْضَ: وہ سیاہ و سفید پرتا ہے۔ اور

کبھی سواد کو نساد کے لیے اور بیاض کو صلاح کے

لیے مثال قرار دیتے ہیں۔

الْبَيْضَةُ: البیض کا واحد۔ انڈا۔ ج بیضات

اور بیض کی جمع بیوض ہے۔ خضیہ۔ خور۔ بَيْضَةُ

الْقَوْمِ: چوپال۔ بَيْضَةُ الْبَلَدِ: شہر کا سب سے بڑا

آرمی۔ گنام نسب والا۔ بَيْضَةُ الْيَدِيكِ: مرغ کا

انڈا (جو چیز ناممکن الحصول ہو یا ایک ہی مرتبہ پائی

جائے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے اردو

میں ہمیں کا انڈا)

الْحَرُّ: گرمی کی شدت۔ الخذر:

لڑکی۔

العقر: آخری اولاد۔

الْأَبْيَضُ: مؤنث بَيْضَاءُ۔ ج بیض: سفید۔

كَلْبَارٍ: الْمَوْتُ الْأَبْيَضُ: ناگمانی موت۔

وَالْمُخِطُ الْأَبْيَضُ: کتابیہ ہے سفیدہ صبح سے۔

أَلْيَدُ الْبَيْضَاءِ: نعمت و احسان۔ کہا جاتا ہے

”أَبْيَئْتُهُ فِي بَيْضَاءِ الْقَيْظِ“ میں اس کے پاس

سخت گرمی میں آیا و كَلَّمْتُهُ فَصَارَ رَدًّا عَلَيَّ

بَيْضَاءً وَلَا سَوْدَاءً“ میں نے اس سے گفتگو کی

اس نے اچھا برا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللَّيَالِي

الْبَيْضُ: چاندنی راتیں۔ قمری مہینے کی تیرہویں،

دہویں، پندرہویں راتیں۔ وَآيَاتُ الْبَيْضِ:

انہی راتوں کے دن۔ الْأَبْيَضَانُ: دودھ اور پانی یا

دودھ اور چربی یا روٹی اور پانی۔ اور کہا جاتا ہے ”مَا

رَأَيْتُهُ مِنْذُ بَيْضَانٍ“ میں نے اس کو دیکھنے یا دو

دن سے نہیں دیکھا اور ہذا بیض من ذاک شاذ

ہے۔ قیاس اشدُّ بِيَاضًا ہے۔ الْبَيْضَاءُ: چاندی۔

گیوں۔

الْبَيْضَاءَةُ: ہمت انڈوں والی۔

الْبَيْضَانُ: مِنَ النَّاسِ: سفید نام لوگ۔

بَاظُ (ض) بَيْظًا: لاغری کے بعد موٹا ہونا۔

الْبَيْظُ: چوٹی کے انڈے۔

بَاعَ (ض) بَيْعًا وَبَيْعًا: فَلَانًا كَيْتَابًا أَوْ مِنْ

فُلَانٍ كَيْتَابًا: بیچنا۔ خریدنا۔ صفت (بائع) جمع باعۃ۔

صفت مفعول (مبيع)

بَايَعَهُ مُبَايَعَةً: باہم عقد بیع کرنا۔ باہم معاہدہ کرنا۔

کہا جاتا ہے ”بَايَعُوهُ بِالْخِلَافَةِ وَ يُؤَيِّعُ لَهُ

بِالْخِلَافَةِ“ لوگوں نے اس کی خلافت کی بیعت

کی۔

أَبَاعَ الشَّيْءَ: بیچنے کے لیے پیش کرنا۔

تَبَايَعًا: باہم خرید و فروخت کرنا۔

إِبْتَاعَ الشَّيْءِ: خریدنا۔

إِتْبَاعَ الشَّيْءِ: راجع ہونا۔

الْبَيْعُ: فروختگی۔ خرید۔

الْبَيْعَةُ: عہد دہیان۔

الْبَيْعَةُ: کلیسا۔ گرجا۔ یہودیوں کا عبادت خانہ ج

بَيْعٌ وَبَيْعَاتٌ وَبَيْعَاتٌ:

الْبَيْعَاتُ: سامان فروختگی۔ ج بیعاعات۔

الْبَيْعُ وَالْبَيْعُ: بیچنے والا۔ خریدار۔

بَاعَ بَيْعًا بَيْعًا وَبَيْعًا: الدَّمُ: جوش میں آنا۔

الْبَيْعَةُ: ایک قسم کی کھاس کا نام ہے۔

بَيْعُزٌّ: چھٹا۔ ہلاک ہونا۔ سر جھکائے ہوئے تیز

چلنا۔ غیر معلوم جگہ میں جانا۔ فِي مَالِهِ:

جلدی سے جاہ و ریاد کر دینا۔ الدَّارُ: اُتْرنا۔

الْأَبْيَقُ: بے خیر و بے فیض آدمی۔

الْبَيْكَارُ: پرکار۔

الْبَيْلَسَانُ وَالْبَيْلَسَانُ: ایک قسم کا درخت ہے

جس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔

الْبَيْمَارِشْتَانُ وَالمَارِشْتَانُ: شفا خانہ۔ اس

کیلے عربی لفظ ”مُسْتَشْفَى“ ہے۔

بَانَ (ض) بَيْبَانًا وَبَيْبَانًا وَبَيْبَانًا: جدا ہونا۔

بَانَ (ض) بَيْبَانًا وَبَيْبَانًا وَبَيْبَانًا: ظاہر ہونا۔

واضح ہونا۔ صفت (بین و باین) ج ابیناء و بایناء

وَابْنَانُ:

أَبَانُ الشَّيْءِ: ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔ کائنات جدا کرنا

الشَّيْءَ: ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ صفت

(مبین) کہا جاتا ہے ”حَضْرَتُهُ فَلَانٌ وَاسْتَهَ مِنْ

حَضْرَتِهِ“ اس نے اس کو مارا اور اس کے سر کو

دھڑ سے جدا کر دیا۔

بَيْنَ الشَّيْءِ: واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔

الشَّيْءُ: بچے لکنا۔ الشَّيْءُ: واضح

کرنا۔

الْبَيْتُ: نکاح کر دینا۔

بَايَعْتُهُ: چھوڑ کر جدا ہونا۔

تَبَيَّنَ: الشَّيْءُ: واضح ہونا۔ الشَّيْءُ:

واضح کرنا۔ غور و تامل کرنا۔

تَبَيَّنَا: ایک دوسرے کو چھوڑنا۔ ایک

دوسرے سے دور ہونا۔ تَبَيَّنَ الشَّيْئَانُ: باہم

متفاوت ہونا۔

إِسْتَبَانَ: الشَّيْءُ: واضح ہونا۔ الشَّيْءُ:

کسی چیز کی وضاحت طلب کرنا۔

بَيْنَ: درمیان (طرف ہے)

بَيْنَ بَيْنَ (دونوں کلمے جتنی رفاقت ہیں) بمعنی

درمیانہ۔ متوسط۔ اور کہا جاتا ہے ”بَيْنَاؤُ بَيْنَمَا

لَحْنٌ نَضْرِبُ“

الْبَيْنُ: جدائی۔ وصل۔ کہا جاتا ہے ”تقطع

بَيْنَهُمَا“ یعنی ان کے میل ملاپ میں فصل واقع

ہو گیا۔

ذَاتُ الْبَيْنِ: نسب۔ رشتہ داری۔ دوستی۔

عداوت۔ نفاذ۔ کہا جاتا ہے ”مَنْعِي فِي إِصْلَاحِ

ذَاتِ بَيْنِهِمْ“ یعنی ان کے اصلاح حال میں

کوشش کی۔

الْبَيْنُ: گوشہ۔ دو زمینوں کے درمیان کا

فاصلہ۔ حد نظر تک کی زمین کا کلراج بیون لفظ

بین کے معنی ترکی زبان میں ہزار کے ہیں۔ بین

باشی کے معنی ہزار کا سردار۔

الْبَيْتَانُ: حصہ۔ فصیح گفتگو جوانی الضمیر کو ظاہر

کرے۔

الْبَائِنَةُ: البائِنُ: کاموٹ۔ ولسن کا چیز (مولدہ)

الْبَائِنَةُ: گمراہیوں۔


الْبَيْتَةُ: البَيْنُ: کاموٹ۔ دلیل و حجت ج

بَيِّنَاتٌ:

بَاءُ بَيْتَاهُ بَيْتَاهُ لَهُ: مطیع ہونا واقف ہونا۔ جاننا۔

بَيْتَاكَ اللَّهُ: بمعنی بَوَّأَكَ اللَّهُ۔ خدا تم کو مالک

ہائے، تمہارے رجبہ کو بلند کرے۔ اور کہا جاتا ہے "ہی بن ہی" یا "ہیان، ہیان" یعنی وہ ہے "ہی بن ہی" اور کہا جاتا ہے "وَلَسْتُ اَذْرِيْ اَيُّ هِيَ بِنِ هُوَ" میں نہیں جانتا وہ کون آڑی ہے۔



التَّاءُ: حروف مبانی کا تیسرا حرف (مؤنث) ج تاءات: نسبت کے لیے ثانی و تاولیٰ و تویوی: کہا جاتا ہے "فَصِنْدَةٌ ثَانِيَةٌ وَ تَوَالِيَةٌ وَ تَوِيوَةٌ": اس کا استعمال کئی طرح سے ہوتا ہے۔ فعل کے آخر میں تنکلم اور مخاطب کی ضمیر ہو کر جیسے قُنْتُ وَ قُنْتُ وَ قُنْتُ وَ قُنْتُ مَا وَ قَمْتُ وَ قَمْتُ وَ قَمْتُ وَ قَمْتُ جیسے قَائِمَةٌ جیسے قَائِمَةٌ وَ ذَهَبْتُ اور کبھی تائبہ کی علامت جیسے قَائِمَةٌ وَ ذَهَبْتُ اور کبھی جس میں سے واحد پر دلالت کے لیے جیسے مَشْجُورَةٌ۔

اور کبھی مبالغہ کے لیے جیسے فَهَامَةٌ عَلَامَةٌ۔ اور کبھی یہ حرف جر ہوتا ہے اور قسم کے لیے آتا ہے اور لفظ اللہ کو جرتا ہے۔ جیسے تَاللَّهِ۔ اور کبھی کبھی اس لفظ کے علاوہ دوسرے کو بھی جرتا ہے جیسے تَوَيْبِي۔

اور کبھی میخہ یعنی المجموع کے آخر میں نسبت پر دلالت کے لیے جیسے مِهَالِبَةٌ۔ اور کبھی حرف محذوف کے بدلہ میں جیسے زَنَاوَقَهُ زَنْبِقِي كِي جَمْع۔

اور افعال کے اوائل اور وسط میں بھی زیادہ کیا جاتا ہے جیسے تَقَاتِلْ وَ اقْتَتَلْ اور کبھی اسماء کے آخر میں جیسے ملکوت کی تاء۔ اور کبھی اول کلمہ کے حرف محذوف کے بدلہ میں جیسے عَطْفَةٌ۔ اور کبھی آخر کلمہ سے جیسے شَفَقَةٌ۔

تاء مؤنث مفرد کے لیے اسم اشارہ ہے۔ اس کا ثنی تان۔ ج اولاد اور اس پر "تاء تیبہ" بھی داخل ہوتا ہے جیسے ہالانا ہالانا و ہؤلؤا۔

خطاب کی حالت میں کاف لاحق کرتے ہیں۔ جیسے تاک و تلک و تبک و تلک (تلک میں ہم کا فقر لغت رویہ ہے) ثنی کے لیے تانک و تانک اور جمع کے لیے اولک و اولاک و اولالک: اور تلک کے علاوہ ان سب پر ان سارے احوال میں حاء تیبہ بھی داخل ہے۔ التائوت: کلزی کا صندوق۔ اور اسی سے تابوت میت ہے۔ کشتی۔ ج توائنت۔ تَائَاتُ تَائَاتٌ وَ تَائَاتٌ: بولتے ہوئی تلاء۔ صفت تاءا۔ الطفل: چلانا۔ المحارب: لڑائی میں اظہار شجاعت کے لیے اگرتے ہوئے چلانا۔

تَأَزُّةٌ (ف) تَأَزُّرًا: جھڑکنا۔ تَأَزُّرًا تَأَزُّرًا: دیکھنا۔ تکلی لگانا۔ بالنعضاء: الاضحی سے مارنا۔ التآزرة: ایک مرتبہ ہمزہ کا ترک کثرت استعمال کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے۔ "فَعَلْتُ تَأَزُّرَةً هَذَا وَ تَأَزُّرَةً ذَاكَ" وَ "تَأَزُّرَةً بَعْدَ تَأَزُّرَةٍ" ج تآزرات و تہور و تہور۔ تَأَزُّرًا (ف) تَأَزُّرًا: الخبز: زخم کا بھر جانا۔ مندرل ہونا۔ القوم فی الحزب: لڑائی میں ایک دوسرے سے قریب ہونا۔ تَوَقُّ (س) تَأَقًا: الأناء: برتن کا بھر جانا۔ التَّوَجُّلُ: غصہ سے بھر جانا۔ صفت (تقیق و متاقق) اتاق۔ الأناء: برتن بھرنا۔ التآفة: غصہ کی تیزی۔ اور لڑائی کی طرف تیز تدری۔

أَتَأَمَّتِ الْمَرْأَةُ: جوڑواں بنتا۔ صفت (مُتَمِّم) اور اگر یہی عادت ہو تو ایسی عورت کو (میتام) کہتے ہیں۔ ج متامیم۔ تَاءَمَ: آغٹا۔ جوڑواں پیدا ہونا۔ صفت (تیم) و تَوَّمٌ وَ تَمِّمٌ: التَّوَّبُ: تانا بانا دونوں میں دوسوی بنتا۔ صفت مفعولی (میتام)

التَّاءُ: حروف مبانی کا تیسرا حرف (مؤنث) ج تاءات: نسبت کے لیے ثانی و تاولیٰ و تویوی: کہا جاتا ہے "فَصِنْدَةٌ ثَانِيَةٌ وَ تَوَالِيَةٌ وَ تَوِيوَةٌ": اس کا استعمال کئی طرح سے ہوتا ہے۔ فعل کے آخر میں تنکلم اور مخاطب کی ضمیر ہو کر جیسے قُنْتُ وَ قُنْتُ وَ قُنْتُ وَ قُنْتُ مَا وَ قَمْتُ وَ قَمْتُ وَ قَمْتُ وَ قَمْتُ جیسے قَائِمَةٌ جیسے قَائِمَةٌ وَ ذَهَبْتُ اور کبھی تائبہ کی علامت جیسے قَائِمَةٌ وَ ذَهَبْتُ اور کبھی جس میں سے واحد پر دلالت کے لیے جیسے مَشْجُورَةٌ۔

اور کبھی مبالغہ کے لیے جیسے فَهَامَةٌ عَلَامَةٌ۔ اور کبھی یہ حرف جر ہوتا ہے اور قسم کے لیے آتا ہے اور لفظ اللہ کو جرتا ہے۔ جیسے تَاللَّهِ۔ اور کبھی کبھی اس لفظ کے علاوہ دوسرے کو بھی جرتا ہے جیسے تَوَيْبِي۔

اور کبھی میخہ یعنی المجموع کے آخر میں نسبت پر دلالت کے لیے جیسے مِهَالِبَةٌ۔ اور کبھی حرف محذوف کے بدلہ میں جیسے زَنَاوَقَهُ زَنْبِقِي كِي جَمْع۔

اور افعال کے اوائل اور وسط میں بھی زیادہ کیا جاتا ہے جیسے تَقَاتِلْ وَ اقْتَتَلْ اور کبھی اسماء کے آخر میں جیسے ملکوت کی تاء۔ اور کبھی اول کلمہ کے حرف محذوف کے بدلہ میں جیسے عَطْفَةٌ۔ اور کبھی آخر کلمہ سے جیسے شَفَقَةٌ۔

تاء مؤنث مفرد کے لیے اسم اشارہ ہے۔ اس کا ثنی تان۔ ج اولاد اور اس پر "تاء تیبہ" بھی داخل ہوتا ہے جیسے ہالانا ہالانا و ہؤلؤا۔

خطاب کی حالت میں کاف لاحق کرتے ہیں۔ جیسے تاک و تلک و تبک و تلک (تلک میں ہم کا فقر لغت رویہ ہے) ثنی کے لیے تانک و تانک اور جمع کے لیے اولک و اولاک و اولالک: اور تلک کے علاوہ ان سب پر ان سارے احوال میں حاء تیبہ بھی داخل ہے۔ التائوت: کلزی کا صندوق۔ اور اسی سے تابوت میت ہے۔ کشتی۔ ج توائنت۔ تَائَاتُ تَائَاتٌ وَ تَائَاتٌ: بولتے ہوئی تلاء۔ صفت تاءا۔ الطفل: چلانا۔ المحارب: لڑائی میں اظہار شجاعت کے لیے اگرتے ہوئے چلانا۔

تَأَزُّةٌ (ف) تَأَزُّرًا: جھڑکنا۔ تَأَزُّرًا تَأَزُّرًا: دیکھنا۔ تکلی لگانا۔ بالنعضاء: الاضحی سے مارنا۔ التآزرة: ایک مرتبہ ہمزہ کا ترک کثرت استعمال کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے۔ "فَعَلْتُ تَأَزُّرَةً هَذَا وَ تَأَزُّرَةً ذَاكَ" وَ "تَأَزُّرَةً بَعْدَ تَأَزُّرَةٍ" ج تآزرات و تہور و تہور۔ تَأَزُّرًا (ف) تَأَزُّرًا: الخبز: زخم کا بھر جانا۔ مندرل ہونا۔ القوم فی الحزب: لڑائی میں ایک دوسرے سے قریب ہونا۔ تَوَقُّ (س) تَأَقًا: الأناء: برتن کا بھر جانا۔ التَّوَجُّلُ: غصہ سے بھر جانا۔ صفت (تقیق و متاقق) اتاق۔ الأناء: برتن بھرنا۔ التآفة: غصہ کی تیزی۔ اور لڑائی کی طرف تیز تدری۔

أَتَأَمَّتِ الْمَرْأَةُ: جوڑواں بنتا۔ صفت (مُتَمِّم) اور اگر یہی عادت ہو تو ایسی عورت کو (میتام) کہتے ہیں۔ ج متامیم۔ تَاءَمَ: آغٹا۔ جوڑواں پیدا ہونا۔ صفت (تیم) و تَوَّمٌ وَ تَمِّمٌ: التَّوَّبُ: تانا بانا دونوں میں دوسوی بنتا۔ صفت مفعولی (میتام)

التَّبَاعُ: ہلاکت۔
 التَّبِعُ: سونے کاغیر ذرا ہوا اذھیلا۔ واحد تَبِیرة۔
 التَّبِیرَةُ: سر کی بھوس (ہیرے میں ایک لخت ہے)
 المَثْبُورُ: ہلاکت شدہ۔ ناقص۔
 تَبِعَهُ (س) تَبِعًا وَتَبَاعًا وَتَبَاعَةً وَتَبِيعَةً:
 پیچھے چلنا۔ ساتھ چلنا۔ فرمانبردار ہونا۔ صفت
 (تبع) واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔ ج
 اتَّبَاعٌ وَتَابِعٌ ج تَبِعٌ وَتَبِعَةٌ وَتَوَابِعٌ وَتَبَاعٌ
 التَّابِعُ لُوكِر۔ خادم۔ جن۔ تَبِعٌ وَتَبِيعُ الشَّيْءِ:
 پیروی کرنا۔ نشان قدم پر چلنا۔
 تَبِيعَهُ: پیروی کرنا۔ تَبِيعَ بِهِ كَذَا لِاتِّبَاعِ كَرْنَا
 تَابِعَ: يَتَّبِعُ الأَعْمَالُ: لگاتار کرنا۔
 التَّحْدِيثُ: اچھی طرح بیان کرنا۔ العَمَلُ:
 محکم کرنا۔ مضبوط کرنا۔ فَلَمَّا عَلِيَ الأَمْرُ:
 موافقت کرنا۔ کہا جاتا ہے "وَالْبَتِيُّ بِمَالِهِ"
 عِنْدِي یعنی اس کا جو کچھ میرے پاس تھا اس کا
 اس نے مجھ سے مطالبہ کیا۔
 اتَّبِعَهُ: پیروی کرنا۔ لَاتِجْرًا اتَّبِعَهُ كَذَا:
 لاجر کرنا۔
 تَفْتِخُ الأَمْرُ: دیر تک تلاش و جستجو کرنا۔ کہا
 جاتا ہے "تَفْتِخُ أَحْوَالَهُ" میں اس کے احوال
 کو ٹوٹا رہا۔
 تَتَابَعَتِ الأَخْبَارُ: ایک دوسرے کے پیچھے
 آتا۔
 اسْتَتَبَعَهُ: پیچھے چلنے کو کہنا۔
 التَّبِيعُ: تابع۔ عاشق۔ کہا جاتا ہے "هُوَ تَبِيعُ
 الكرم" وہ فاضل کا عاشق ہے۔
 التَّبِيعُ: بہت تابعداری کرنے والا۔
 التَّبِيعَةُ ج تَبِيعَاتٌ وَالتَّبَاعَةُ ج تَبَاعَاتٌ:
 تادان۔ ڈانڈ۔ کہا جاتا ہے "لِلهَذَا الفِعْلِ تَبِيعَةٌ"
 یعنی اس فعل سے ضرر لائق ہونے والا ہے۔
 تَبِيعٌ: عین کے پوشا ہوں کا لقب۔ ج التَّبَاعِيَّةُ
 وَالتَّبِيعُ: ساری۔ شہد کی بڑی کبھی ج تَبِيعِيَّةُ
 التَّبِيعُ: مددگار۔ پیروی کرنے والا۔ ج تَبِيعٌ وَ
 تَبِيعِيَّةُ
 التَّبَاعِيَّةُ: تابع کا مؤنث۔ لُوكِرَانِي۔ خادمہ۔ بیہ۔
 التَّبَاعِي: تابع اور تابع کی جانب نسبت۔ وہ

مخض جس نے بحالت ایمان صحابہ کرام میں پیغمبر کی
 زیارت کی ہو اور حالت ایمان ہی پر انتقال ہوا ہو۔
 التَّبَاعُ: تابع کا مصدر۔ اور کبھی صفت کے طور
 پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے "شہد ناہن ایاما
 تَبَاعًا"
 الاتِّبَاعُ: ہمہ کسی ایسے کلمہ کا لانا جو ما قبل کے
 کلمہ کے ہم وزن ہو۔ جیسے کثیر بثیر۔ خبیث
 نبیث۔
 التَّبِيعُ: تمباکو۔
 تَبِيعَةٌ (ن) تَبِيعًا وَتَبِيعَةً: الحُبُّ أَوِ الذُّمُّ: پیار
 کر دینا۔ عقل کو ضائع کر دینا۔ صفت مفعولی
 (مقبول و تینیل) ہے۔
 تَبِيلٌ وَتَابِلٌ وَتَوْبِلٌ: الطَّعَامُ: سالہ ڈالنا۔
 التَّبِيلُ: ہمہ۔ کینہ۔ دشمنی۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا
 تَبِيلٌ" ان دونوں کے درمیان عداوت ہے ج
 أَتْبَالٌ وَتَبِيلٌ
 التَّابِلُ وَالتَّابِلُ وَالتَّابِلُ: مسالہ۔
 التَّبَالُ: مسالہ والا۔ مسالہ پیچھے والا۔
 التَّوْبَالُ: مِنَ التَّحَاثُ وَالتَّحْدِيدِ: ذرات جو
 کوٹنے میں گریں۔
 تَبِينٌ (ض) تَبِينًا: الدَّيْبَةُ: بھوسہ کا چارہ دینا۔
 تَبِينٌ (س) تَبِينًا وَتَبَانَةً: سمجھ دار و ذکی ہونا۔
 صفت (تَبِينٌ)
 تَبِينٌ: بھوسے کے ذخیرہ میں بھوسہ رکھنا۔
 الرَّجُلُ: باریک بین ہونا۔
 التَّبِينُ: جاگھیا ہونا۔ لُوكِرُ: بانڈھنا۔
 التَّبِينُ: بھوسہ، واحد (تَبِينَةٌ) ج أَتْبَانٌ وَتَبِينُونَ:
 بڑا پیالہ۔
 التَّبِيعِيُّ: بھوسہ کے رنگ کا۔
 التَّبَانُ: بھوسہ پیچھے والا۔
 التَّبَانُ: لُوكِرُ: جاگھیا۔ تکر۔
 تَبَا (ض) تَبِيًا: غزدہ کرنا اور مال قیمت حاصل
 کرنا۔
 التَّبَرُ: قوم تاتار۔ واحد (تَبَرِيٌّ) کہا جاتا ہے
 "جَاءَ القَوْمُ (تَبَرِيٌّ وَتَبَرِيٌّ)" لوگ پے در پے
 آئے اس کی اصل وَتَوْبِيٌّ ہے۔
 التَّبِينُ: تمباکو (یہ لفظ ترکی الاصل ہے اس کے
 معنی دھوئیں کے ہیں)۔

تَبَجَزَ (ن) تَبَجَزًا وَتَبَجَزَةً وَتَابَجَزَ وَاتَّبَجَزَ
 وَاتَّبَجَزَ: سوداگری کرنا۔
 التَّبِجَزَةُ: سوداگری۔ سرمایہ۔
 التَّاجِرُ: سوداگر۔ عرب شراب بیچنے والے کو
 تاجر کہا کرتے تھے۔ ج تَبَجَزًا وَتَبَجَزَةً وَتَبَجَزَ
 کہا جاتا ہے "بِضَاعَةَ تَاجِرَةٍ" راجح سلمان۔ ج
 تَوَاجِرُ۔
 التَّبَجَزُ: سوداگری۔ سرمایہ۔ اور اسی سے ہے
 "وَصُنْعُهُ فِی مَشْجَرِ الحَمَلِيزِ العِجَّةِ"
 التَّبَجَزَةُ: منڈی۔ کہا جاتا ہے "أَزْضُ
 مَشْجَرَةٍ" تَبَارَتِي نلک۔
 تَبَحَثٌ: نیچے۔ اس لفظ کے لیے اضافت لازم
 ہے اور جب اضافت سے علیحدہ کرتے ہیں تو جملی
 برضہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں "جَاءَ مِنْ
 تَبَحَثٌ" ج تَبَحَثُونَ۔
 التَّبَحُوثُ: کیمنے۔ اولیٰ درجہ کے لوگ۔
 التَّبَحُّثَانِي: تحت کی جانب منسوب۔ نیچے کی
 چیز۔
 تَبَحَثَهُ: مِنْ مَكَانِهِ: حرکت دینا۔ کہا جاتا ہے
 "فَلَمَّا لَاقَ التَّبَحَثُ مِنْ مَكَانِهِ" فلاں جگہ سے
 حرکت نہیں کرتا۔
 التَّبَحَثَةُ: حرکت۔ تسمہ کی حرکت کی آواز۔
 التَّبَحَثَةُ: الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ وَالتَّبَحَثَةُ: بہہ
 کرنا۔ تَحَفُّدٌ دینا۔
 التَّبَحَثَةُ وَالتَّبَحَثَةُ: بہہ۔ نفس تہمتی چیز۔ بہہ
 چیز جو کسی کے سامنے لطف و مہربانی کے طور پر
 پیش کی جائے۔ ج تَبَحَثُفٌ۔
 تَبَحَمَ (ن) تَبَحَمًا: القَوْبُ: نقش و نگار کرنا۔
 التَّبَحَمُ: التَّبَحَمًا: سخت سیاہ ہونا۔
 التَّبَاحِمُ: جولاہہ۔
 الأَتَبَمُ: سخت سیاہ۔
 التَّاجِسِيُّ: باغبان۔
 تَبَحَ (ن) تَبَحًا: العَجِينُ: گندھے ہوئے
 آنے کا ترش ہونا۔ (تَبَحًا) العَجِينُ او
 الطَّبِينُ: گندھے آنے یا مٹی کو نرم ہونے کے
 لیے پانی برھانا۔
 التَّبَحُ: العَجِينُ: کھانا کرنا۔ نرم ہونے کے لیے
 زیادہ پانی ڈالنا۔

المَاءُ بِأَيِّ كَأَمٍ جَاءَ -
 تَوْرَةٌ (ض) تَوْرًا: بچھاڑنا۔
 اَتَوْرَ الشَّيْءِ: سخت کرنا۔ خشک کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”الْحَزْمِيُّ يُنْزِرُ لِحَمِّ الدَّابَّةِ“ دوڑ جانور کے
 گوشت کو سخت کر دیتی ہے۔
 القَارِزُ: سخت وقوی۔ اور اسی سے ہے ”إِنَّ
 عَجَبَتِكُمْ لِقَارِزٌ“ تمہارا نمیر سخت ہے۔ خشک چیز
 جس میں روح نہ ہو۔ مردہ۔
 التَّرَازُ: جاہک موت۔
 تَوْرَةٌ: ڈھال پٹنا یا دینا۔ (توس) :
 ڈھال لگانا یا ڈھال سے اپنے آپ کو چھپانا۔ صفت
 (تارس) کہا جاتا ہے ”لَا يَسْتَوِي الرَّاجِلُ
 وَالْقَارِضُ وَالْأَكْشَفُ وَالْقَارِشُ“ پیدل اور
 سوار اور بے ڈھال والا اور ڈھال والا برابر نہیں۔
 اَتَوْرَسَ النَّيَابَ: دروازہ بند کرنا۔
 اَتَوْرَسَ بِالْمَرْبِطِ أَوْ غَيْرِهِ: ڈھال وغیرہ سے
 اپنی حفاظت کرنا۔
 التَّوْرَسُ: ڈھال۔ ج: اَتَوْرَسَ وَتَوْرَسَ وَتَوْرَسَ
 وَتَوْرَسَ: تَوْرَسَ الشَّمْسِ: آفتاب کی کلیا۔ کہا
 جاتا ہے ”غَابَ تَوْرَسُ الشَّمْسِ“
 المِشْرَاسُ وَالمِشْرَاسَةُ: ج: مِشْرَاسُ وَ
 (المِشْرَاسُ) ج: مِشْرَاسُ: دروازے کے پیچھے
 لگائے کا ڈنڈا۔ دیوار وغیرہ جس کے پیچھے چھپ کر
 دشمن سے بچیں۔
 التَّوْرَاسُ: ڈھال بنانے والا۔ ڈھال والا۔
 التَّوْرَاسَةُ: ڈھال سازی۔
 التَّوْرَسَانَةُ وَالتَّوْرَسَانَةُ: اسلحہ خانہ۔ جواز
 سازی کا کارخانہ۔
 تَوْرِشُ (س) تَوْرِشًا: بد خلق ہونا۔ صفت
 (تَوْرِشُ)
 تَوْرِشُ (ك) تَوْرِشَةً: الشَّيْءُ: سیدھا ہونا۔
 مضبوط ہونا۔ صفت (تو ریش)
 تَوْرِشُ وَتَوْرِشُ: المِشْرَاسُ: سیدھا کرنا۔ صفت
 مضبوطی (تو ریش و مَشْرُوسُ): کہا جاتا ہے ”اتو ریش
 مِشْرَاسَكَ لِيَأْتَهُ شَائِلٌ“ اپنی ترازو درست کر
 اس لیے کہ وہ اٹھی ہوئی ہے۔
 المِشْرَاصَاتُ: سیدھے کے ہونے نیزے۔
 تَوْرِعُ (ع) تَوْرِعًا: برائی کی طرف سبقت کرنا۔

آمان زمین جیسا فرق ہے۔
 التَّوْرَةُ: مٹی۔ قبرستان۔ ج: تَوْرَبُ: تَوْرَبَةٌ۔
 الْإِنْسَانُ: انسان کی قبر۔
 التَّوْرَبُ: فقیر۔ ”رَبِيعٌ تَوْرَبَةٌ“ خاک اڑانے والی
 ہوا۔ ”لِحَمِّ تَوْرَبٍ“: خاک آلود گوشت۔ ”مَكَائِ
 تَوْرَبٍ“: بہت مٹی والی جگہ۔
 التَّوْرَبَةُ: ج: تَوْرَبُ: ایک قسم کی گھاس۔ ج
 تَوْرِبَاتُ: اگلیوں کے کنارے۔ سراگشت۔
 التَّوْرِبِيَّةُ: سینہ کی ہڈی۔ سینہ کا بالائی حصہ۔ تَوْرِبَةٌ
 التَّبَعِيَّةُ: اونٹ کے نخر کرنے کی جگہ۔ ج: تَوْرِبُ
 التَّوْرِبَةُ: فقر وفاقہ۔ کہا جاتا ہے ”مِشْكِينٌ
 ذُو مَشْرَبَةٍ“ یعنی خاک آلود مسکین۔
 تَوْرَتُ تَوْرَتًا: جلدی جلدی بولنا اور بہت بولنا۔
 مَشْكُوْمٌ میں نرم ہونا۔ بدن کے لحاظ سے ڈھیلا ہونا
 الشَّيْءُ: خوب ہلانا۔
 تَوْرَتُوْرًا: ہل جانا۔
 التَّوْرَاتُ: تختیاں۔
 تَوْرَجُ (س) تَوْرَجًا: التَّوْرَجُ وَشَوَارِبَانَا: مشکل و
 مشقیات۔
 تَوْرَجُ (ن) تَوْرَجًا: بچھنا۔ پوشیدہ ہونا۔
 التَّوْرِيحُ: مضبوط پٹوں والا۔ مَوْنَتُ تَوْرِيحَةٍ:
 اور کہا جاتا ہے ”رَبِيعٌ تَوْرِيحَةٌ“ تیز ہوا۔
 تَوْرَجَمُ: التَّوْرَجَمُ: ترجمہ کرنا۔ صفت (تَوْرَجَمَانُ
 وَ تَوْرَجَمَانُ) ج: تَوْرَجَمَةٌ وَتَوْرَجِمُ: التَّوْرَجُلُ:
 عادات و اخلاق دیکھنا۔ عَقْدَةٌ: کسی کے معاملہ کو
 واضح کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَوْرَجَمَهُ بِالتَّوْرِيحِيَّةِ“ اس
 نے تری زبان میں ترجمہ کیا۔
 تَوْرَجَمُ: التَّوْرَجَمُ: مشقیہ ہونا۔
 التَّوْرَجِمَةُ: ترجمہ۔ سوانح عمری۔ ج: تَوْرَجِمُ وَ
 تَوْرَجِمَةُ الْكِتَابِ: کتاب کا ریاجہ۔
 تَوْرَحُ (ف) تَوْرَحًا وَتَوْرَحٌ: عملیں کرنا۔
 تَوْرَحُهُ وَتَوْرَحُهُ: عملیں کرنا۔
 التَّوْرَحُ: غم۔ محتاجی۔ فقیری۔ ج: اَتَوْرَحُ:
 التَّوْرَحُ: غم خیز والا۔ بہت غم والا۔
 المِشْرَاجُ: مِنَ التَّوْرِيحِ: اونٹنی جس کا دودھ
 جلدی سے ختم ہو جائے۔ ج: مِشْرَاجُ
 تَوْرَزُ (ض) وَتَوْرَزُ (س) تَوْرَزًا وَتَوْرَزًا
 الشَّيْءُ: خشک ہونا۔ مضبوط ہونا۔ سخت ہونا۔

التَّوْرَعُ: بگاڑنا۔ مٹی کا عصارہ۔
 التَّوْرَعُ: سخت۔ تَوْرَعْتُ الْمَلِكَ: تحت
 شای۔ تَوْرَعْتُ الْمَمْلَكَةَ: دارالسلطنت۔ جامہ
 دان۔ ج: تَوْرَعْتُ:
 التَّوْرَعَةُ: لکنت۔ بھلا پن۔
 التَّوْرَعَاخُ وَالتَّوْرَعَانِي: بھلا۔
 تَوْرَعْدَةُ (س) تَوْرَعْدًا: بیانا۔
 تَوْرَعْمَةُ (ض) تَوْرَعْمًا: حد مقرر کرنا۔
 تَوْرَعْمُ (س) تَوْرَعْمًا وَالتَّوْرَعْمُ: بد بھسی ہونا۔
 اَتَوْرَعْمَةُ: الطَّعَامُ: جلائے بد بھسی کرنا۔
 تَوْرَعْمُ: مُلْكِي مُلْكِكَ: سرحدیں متصل
 ہونا۔
 التَّوْرَعْمُ وَالتَّوْرَعْمُ: سرحد۔ ج: تَوْرَعْمُ
 التَّوْرَجُ وَالتَّوْرَجُ: ایک خوبصورت پردہ
 جس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ ج: تَدَارِجُ:
 تَوْرَانُ (ض) تَوْرَانًا وَتَوْرَوْرًا: الْعَظْمُ: کٹ کر گرنا
 عَنْ قَوْمِهِ: الگ ہونا۔ دور ہونا۔ (س)
 تَوْرَاةُ التَّوْرَجُلِ: موٹا اور ڈھیلا ہونا۔ صفت (تَوْرَ)
 اَتَوْرَهُ: دور کرنا۔ اَتَوْرَيْدَةً: ہاتھ کاٹ دینا۔
 التَّوْرُ: اصل۔ جڑ۔ معمار کی ڈوری۔
 التَّوْرِيُّ: مِنَ الْاَيْدِي: کٹا ہوا ہاتھ۔
 تَوْرِبُ (س) تَوْرِبًا: الْمَكَائِنُ: بہت مٹی والا ہونا
 الشَّيْءُ: مٹی لگ جانا۔
 تَوْرِبُ (س) تَوْرِبًا وَتَوْرِبًا: التَّوْرِبُ: محتاج ہونا۔
 صفت (تَوْرِبُ وَتَوْرِبُ) ج: تَوْرِبُ: اور اسی سے
 ہے ”تَوْرِبُ بَعْدَ أَنْ اَتَوْرِبُ“ وہ مالدار ہونے کے
 بعد محتاج ہو گیا۔
 تَوْرِبُ وَتَوْرِبُ: مالدار ہونا۔ کم مال والا ہونا۔
 تَوْرِبُ وَتَوْرِبُ الشَّيْءِ: خاک ڈالنا۔
 تَوْرِبَةٌ: بمعص ہونا۔ دوست ہونا۔
 تَوْرِبُ مٹی ہونا۔ خاک آلود ہونا۔
 التَّوْرِبُ: مٹی۔ ج: اَتَوْرِبُهُ وَتَوْرِبَانُ:
 التَّوْرِبُ: بکری کا دست۔
 التَّوْرِبُ: ہم عمر۔ اکثر اس کا استعمال عورتوں
 کے لیے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”هَذِهِ تَوْرِبُ
 فَلَانَةَ“ یہ عورت فلانی کی ہم عمر ہے۔
 التَّوْرِبَاءُ: مٹی۔ زمین۔ کہتے ہیں ”بَيْنَهُمَا مَاءٌ
 بَيْنَ الْحَزْمِيَّاتِ وَالتَّوْرِبَاءِ“ ان دونوں کے درمیان

الْقَمْزُ بدير کمال ہوتا۔

تَنَامُ الْقَوْمُ: سب کا آنا۔

اِسْتَقَمَ الشَّيْءُ: پورا کرنا۔ الشَّيْءُ: پورا کرنے کو کہنا۔

التَّمُّ: بیاہ کی ایک قسم جس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔

الْيَمُّ: کھاڑا۔ البَدْرُ العِجْمُ: ماہِ کال۔

العَصَامُ: بتلیلث التاء والاغلب الفتح:

کمال۔ وہ چیز جس سے کسی چیز کو پورا کیا جائے۔

اور اسی معنی میں دَمٌّ وِیَمٌّ وَثَمٌّ وِیَمَامَةٌ

وِیَمَامَةٌ: ہے۔ چاند کے پورا ہونے کی رات۔

اور کہا جاتا ہے "بَدْرٌ تَمَامٌ وَبَدْرٌ تَمَامٌ" "لَيْلَةُ

التَّمَامِ" جاڑے کی لمبی رات۔

التَّمَامَةُ: بقیہ۔

التَّيْمَةُ: جس سے کسی چیز کو پورا کیا جائے۔

التَّيْمِيُّ: مضبوط۔ پورے قدر قامت والا۔

التَّيْمِيَّةُ: تعویج۔ ح تمائم و تميمات: اور

"إِمَاطَةُ التَّمَائِمِ" کنایہ ہے بڑے ہونے سے۔

تَمَمَّ تَمَمَةً: فی الکلام: جلدی جلدی

پولنا اور واضح نہ کرنا۔ صفت (تمام) مؤنث

تَمَامَةٌ۔

تَمْرَةٌ (ن) تَمْرٌ او تَمْرَةٌ: کھجور کھلانا۔

اللَّحْمُ: چھوٹے چھوٹے کٹڑے کا ٹانادر

خُتک کرنا۔

أَتَمَّرَ وَتَمَّرَ: الزُّطْبُ: خُتک کھجور ہونا۔

التَّخْلَةُ: بچل دار ہونا۔ أَمَّرَ القَوْمُ: بہت

کھجوروں والا ہوا۔

تَتَمَّرَ اللَّحْمُ: خُتک ہونا۔

التَّمْرُ: خرما۔ واحد تَمْرَةٌ۔ ح تَمْرَاتٌ وَتَمْرُورٌ

وَتَمْرَانٌ: التَّمْرَةُ: چھاپک کے سرے کی گرہ۔

التَّمْرُ الهِنْدِيُّ: اٹلی۔

العَنْقَارُ: خرما فروش۔

القَامِرُ: بہت کھجور والا۔ کھجور والا۔

المَشْفُورُ: کھجور کا توشہ دیا ہوا۔

التَّمْرِيُّ: کھجوروں کا شائق۔

التَّمَامِيُّ وَالتَّمَامُورِيُّ: انسان۔ کہا جاتا ہے

"مَابَا لِدَارِ تَامُورٍ او تَمُورٍ" گھر میں کوئی نہیں

یا کچھ نہیں۔

تَمُورٌ وَتَمُورٌ: ترکی مینہ۔ مطابق ماہِ جُولائی۔

التَّمْسَاحُ: گھڑیاں۔ ح تَمْسَاحِيْنٌ۔

تَمِهَ (س) تَمِهَاتٌ وَتَمَاهَةٌ: الطَّعَامُ: بُو یا مزہ

نِزَاب ہونا۔ صفت (قِمہ)

قَاتِنٌ يَتَمَهَّمَا: مقابلہ کرنا۔ اندازہ کرنا۔

أَقَنَّ: المَرَضُ الصَّيْبِيُّ: بڑھنے سے روکنا۔

صفت مفعول (يَنْ) الزَّوْجُلُ: دور ہونا۔

النَّبِيُّ: مَخْضُ۔ شل۔ ہسرن۔ ح اَنْقَانُ۔

النَّبِيْنُ: مچھلی۔ اڑوہا۔ آسمان میں ایک جگہ کا

نام۔ ح نَكَاتِيْنٌ۔

تَنَأَ (ف) تَنُوءٌ ا۔ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

صفت (تَأَنِي) ح تَنَاءٌ۔

التَّنْبِكُ وَالتَّنْبِيَاكُ: تمبرا کر۔

النَّبِثَلُ وَالتَّنْبِيَالُ وَالتَّنْبُوْلُ وَالتَّنْبِيَالَةُ: بہت

تَد۔ کدو۔ ح تَنَابِلٌ وَتَنَابِلَةٌ۔

التَّنْبَلُ وَالتَّنَابُوْلُ: پان۔

التَّنَجْرَةُ: ہانڑی۔ ریگ (جدید)

تَنَخَّ (ن) تَنُوْحًا وَتَنَخَّ وَتَنَخَّ: بِالْمَكَانِ:

اقامت کرنا۔

تَنَخَّ (س) تَنَخَا: بد بھشی ہونا۔

أَتَنَخَّ: جملہ بد بھشی کرنا۔

التَّنُوْبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔

واحد تَنُوْبَةٌ۔

التَّنُوْرُ: خور۔ ح تَنَابِيْرٌ۔

التَّنَارُ: خور بنانے والا۔

التَّنَضُّبُ: (دیکھئے ماہِ مَضِب)

التَّنُوْفَةُ وَالتَّنُوْفِيَّةُ: بے پانی کا جنگل۔ ح تَنَائِفٌ۔

التَّنُّكُ: تین (جدید)

التَّنُّكَجِيُّ: تین بنانے والا۔ (جدید)

تَهْتَهُ: لغویات میں مشغول ہونا۔

التَّهَاتِيَّةُ: لغویات، باطل باتیں۔

تَهَمَ (س) تَهَمًا: اللُّحْمُ: خراب ہونا۔ صفت

(تَهَم)

أَتَهَمَ وَتَهَمَ وَتَهَمَ: سرزمین۔ تمامہ میں آنا یا

نازل ہونا۔

التَّهَمَةُ: بدبو۔

تِهَامَةٌ: تگہ۔ مظہر۔ ملک حجاز کے جنوبی علاقے۔

نسبت کے لیے تھامی و تھام۔ ح تَهَامِيْتُوْنٌ

وَتَمَامُوْنٌ۔

أَتَهَمَ وَتَهَمَةَ: (دیکھئے ماہِ دِهَم)

تَهَمَ (س) تَهَمًا: صفت (تَهَم)

تَهَمًا (ن) تَهَمًا: ناقص ہونا۔

التَّهْوَاءُ: رات کا ایک حصہ۔ کہا جاتا ہے

"مَضَى تَهْوَاءُ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا ایک حصہ

گذر گیا۔

التَّوْ: اکیلا۔ ایک لڑی کی بیٹی ہوئی رشی۔ ح

أَتَوَّأ: کہا جاتا ہے "جَاءَ تَوًّا" وہ قصد کر کے آیا۔

کوئی چیز اس کو باز نہیں رکھ سکتی۔

قَاب (ن) تَوْبَانٌ وَتَوْبَةٌ وَقَابَةٌ وَتَوْبَانَةٌ۔

إِنِّي اللَّهُ: گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ

ہونا۔ نام و پشیمان ہونا۔ صفت (تَاب)۔

اللَّهُ عَلَيَّ: بخش دینا اور دوبارہ مریبان ہونا۔

صفت (تَوَّأب)

اِسْتَقَابَةُ: توبہ کرنے کی ترغیب دینا۔

التَّوْبُ: توبت کا درخت۔ توت کا پھل۔

التَّوْبِيَا: یہ ایک قسم کا پتھر ہے جو بطور سرسہ

کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک قسم کی سمندری

پہی جس پر کائے ہوتے ہیں اور اس کے اندر

سے اندرے کی زرری کی مانند ایک چیز نکلتی ہے جو

کھائی جاتی ہے۔

تَاجُ (ن) تَوَّجًا: تاج پہننا۔

تَوَّجَهُ: تاج پہنانا۔

تَتَوَّجُ: تاج پہننا۔

التَّوَّاجِجُ: تاج والا۔

التَّاجُ: شاہی ٹوپی۔ ح تَوَّجَانٌ۔ تَاجُ العَجَبَانِ:

ستارے۔ تَاجُ العَمُودِ: ستون کے بالائی حصہ

کے کس ونگار۔

قَاحٌ يَتَوَّحُّ تَوَّحًّا لَهٗ الشَّيْءُ: تیار ہونا۔

تَاحَتْ (ن) تَوَّحًا وَتَوَّحًّا: الأَضْبَعُ: فی

الجَسْمِ المُوَارِمِ أَوِ الزُّخُو: انگلی کا سوجے ہوئے

یا زرم حصہ بدن میں دھس جانا۔

التَّوْدِرِيُّ وَالتَّوْدِرِيُّ: ایک دوا کا نام


تَازِ (ن) تَوَّرًا: الماءُ: جاری ہونا۔

أَقَارَ وَاقَارَةٌ: بار بار لوٹنا۔

التَّوْرُ: چھوٹا ترن۔ قاصد۔

التَّوَارَةُ: (دیکھئے تَار)

<p>أَرْضٌ تَبْهَاءٌ وَمَتْبَهُةٌ وَمَتْبَهُةٌ وَمَتْبَهُةٌ وَرَبِيَّةٌ : راستہ بھٹکانے والی سرزمین۔</p>	<p>مغزور۔ الینہ : ڈیک۔ غرور۔ گراہی۔ چیل میدان جس سے انسان بھگ جائے۔ ج آتیاہ و آتاویہ و اتاویہ۔</p>	<p>وتبہانًا) سرگشتہ پھرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (کتاہ و تبہان) تکہ و آتاءہ : گمراہ کرنا۔ ضائع کرنا۔ التائبہ و التبیہان و التبیہان : تکبیر۔</p>
---	--	---



ثَبِيتُ (س) ثَابِتًا وَثَبِيتٌ وَتَثَابَتٌ: جمالی لیتا۔
صفت (مثنوی) و تَثَابَتُ الْأَخْبَارِ: چیز جو کرا۔
الْعِيَابُ وَالْفُؤْبَاءُ وَالتَّثَابُتُ: جمالی۔
ثَابِتًا: پیا سا رکھنا۔ سیراب کرنا۔ الثَّابِتُ: الثَّابِتُ: کسی کام سے روکنا۔
ثَابِتٌ (ف) ثَابِتًا: الثَّابِتُ: الثَّابِتُ: مریانا۔
الثَّوَابُ: بھیر بھیری کی آواز۔
ثَبِيتٌ (س) ثَابِتًا: الثَّابِتُ: الثَّابِتُ: شاداب ہونا۔
الثَّوَابُ أَوْ الثَّابِتُ: بھیر بھیر ہونا۔ صفت
(ثَبِيتٌ وَثَبِيتٌ)
الثَّابِتُ وَالْقَادُ: ثَمَنًا كَثِيرًا: تری۔ سردی۔ بڑا
کام۔ نرم و سرسبز جگہ۔
الثَّابِتُ: موٹی عورت۔
الثَّابِتُ: لومڑی۔ "مَا أَنَا بِلَا ثَابِتٍ" میں عاجز
اور کمزور رائے والا نہیں ہوں۔
الثَّابِتُ: موٹلی۔
ثَابِتٌ (ف) ثَابِتًا: الثَّابِتُ وَالْقَابِلُ وَالْقَابِلُ: خون کا
مطابہ کرنا۔ قائل کو قتل کرنا۔ صفت (ثَابِتٌ) کہا جاتا
ہے "ثَابِتٌ بِكَذَا"
یعنی اس نے فلاں کے ذریعہ خون کا بدلہ لیا
"وَأَثَابَتُهُ" زید سے خون کا بدلہ لیا گیا۔
أَثَابَ وَأَثَابَ: مَنَةً: خون کا بدلہ لیتا۔
إِسْتَفْزَأَ: خون کا بدلہ لینے کے لیے فریاد کرنا۔
الثَّابِتُ وَالْقَابِلُ: خون کا بدلہ۔ جرم کا بدلہ۔ ج
أَثَابَ وَأَثَابَ وَثَابِتٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ ثَابِتٌ" وہ
تمہارے رشتہ دار کا قائل ہے۔ "وَمَا ثَابِتٌ أَيْ
فُلَانٌ" اے فلاں کے قاتلو! "وَالثَّابِتُ الْعَلِيمُ"
خون کا بدلہ جس کے بعد طالب آرام سے
سور ہے۔

ثَبِيتٌ (ف) ثَابِتًا: الثَّابِتُ: خراب ہونا۔ بگڑنا۔
ثَبِيتٌ: الثَّابِتُ: زکام ہونا صفت (مثنوی)
الثَّابِتُ: زکام۔
الثَّابِتُ: بدبودار کچھڑ اور اسی سے مثل ہے
"ثَابِتٌ مَدَّتْ بِمَاءٍ" اس وقت بولتے ہیں جبکہ
ایک خرابی کے ساتھ اسی جیسی دوسری خرابی ہو
جائے۔ جیسے اردو میں "مغلی میں آگ لگیا" ج۔
ثَابِتٌ۔
الثَّابِتُ: بیوقوف عورت۔
ثَابِتٌ وَثَابِلٌ: جَسَدُهُ: سے والا ہونا۔
الثَّابِتُ: مسد۔ پستان کا سرا۔ بھٹی ج کالین۔
ثَابِتٌ (ف) ثَابِتًا وَأَثَابَتُهُ: الشَّيْءُ: چرنا۔ پھاڑنا۔
کمزور کرنا۔ فاسد کرنا۔ وَأَثَابَتُهُ فِي الْقَوْمِ كَثْرًا
وَدُخَانًا كَثِيرًا۔
ثَابِتٌ (س) ثَابِتًا: الشَّيْءُ: جھد جانا۔
الثَّابِتُ: زخم کے نشان۔
الثَّابِتُ: مہ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ يَرِثُ الثَّابِتُ"
فلاں فساد کی اصلاح کرتا ہے۔
ثَابِتٌ (ن) ثَابِتًا: جَمْرٌ كَرِيهُنًا: وقار سے بیٹھنا
الثَّابِتُ: پورا کرنا۔
ثَابِتٌ (ك) ثَابِتًا وَثَبِيتًا: بہادر ہونا۔ صاحب
عزم ہونا۔
ثَابِتٌ (ن) ثَابِتًا وَثَبِيتًا: فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا۔
قیام کرنا۔ الثَّابِتُ: علی الامر: مداومت کرنا۔
صفت (ثَابِتٌ وَثَبِيتٌ وَثَبِيتٌ) الثَّابِتُ: الامور
عندہ: ثابت ہونا۔ موکد ہونا۔
ثَابِتٌ وَثَبِيتٌ: ثابت کرنا۔ الثَّابِتُ: الحق:
دلائل سے موکد کرنا۔ نام درج رجسٹر کرنا۔ لکھنا اور
کہا جاتا ہے "طَعَنَتْهُ فَأَثَابَتُ لِيهِ الْوَرِيْعُ" اس نے
اس کو تیز ہمارا اور گھسا دیا۔

ثَابِتٌ وَثَابِتَةٌ: الامور: پوری طرح
سے پہچانا۔
إِسْتَفْزَأَ وَتَثَابَتٌ: فِي الْأَمْرِ وَالرَّيْ: اسی
جلدی نہ کرنا۔ سہلت سے کام لینا۔ مشورہ کرنا۔ اور
حقیقت کی جستجو کرنا۔
الثَّابِتُ: ثابت ہونا۔ حجت۔ دلیل۔ کہا جاتا ہے
"لَا أَحْكُمُ إِلَّا بِثَبِيتٍ" میں بغیر حجت و برہان کے
فیصلہ نہیں کرتا۔
الثَّابِتُ: برقع کے بند۔ کجاہ باندھنے کے تھے۔
الثَّابِتُ: ایسی بیماری جو حرکت سے عاجز کر
دینے والی ہو۔ بہادر شہسوار جس کا حملہ
بھرا پورا ہو۔
الثَّابِتُ: ایجاب: نفی کی ضد۔
الثَّابِتُ: قوم کے معتبر لوگ۔ مفرد ثَابِتٌ کہا
جاتا ہے "فُلَانٌ ثَابِتٌ مِنَ الْأَثَابِتِ" یہ مجاز ہے
جیسے کہ "فُلَانٌ حُجَّةٌ" جبکہ روایت میں ثَابِتٌ ہو۔
الثَّابِتُ مِنَ الثَّابِتِ: سیاروں کے علاوہ
ستارے۔ واحد ثَابِتَةٌ۔
الثَّابِتُ: مہم۔ تسموں سے بندھا ہوا۔ مَرِيضٌ
مُثَبِتٌ: زیادتی مرض کی وجہ سے پھوٹنے سے
جدانہ ہونے والا۔
ثَبِيتٌ (ن) ثَبِيتًا وَثَبِيتٌ: الْكَلَامُ: ٹھیک
طریقے سے گفتگو نہ کرنا۔ الثَّابِتُ: تحریر
میں غیر معروف طریقہ استعمال کرنا۔
ثَبِيتٌ (ض) ثَبِيتًا وَثَبِيتًا: پادوں کی انگلیوں
پر بیٹھنا۔
ثَبِيتٌ وَثَبِيتٌ: الثَّابِتُ بِالْعَصَا: لامنی کو پیٹھ پر
رکھ کر اس کے پیچھے ہاتھ رکھنا۔
إِتْبَاعُ الثَّابِتِ: السَّفَاءُ: بھرجانا۔ الثَّابِتُ: الوجُلُ:
موٹا اور ڈھیلا ہونا۔

<p>الْفَيْحُ : كاندھے اور پیٹھ کا درمیانی حصہ ”الْفَيْحُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“ درمیانی حصہ۔ بڑا حصہ۔ بلند حصہ۔ ج۔ ”أُتْبِجُ وَتُؤْبِجُ“ کہا جاتا ہے۔ ”يُؤْكَبُونَ تَبِجَ هَذَا الْبَحْرِ“ وہ لوگ اس سمندر کے بڑے حصے پر سوار رہ گئے۔ ”وَسَمِعْتُ الْحُمُرَ أُتْبِجُ الْأَكَامَ“ گدھے ٹیلوں کی بلند یوں پر چڑھ گئے۔ الْأُتْبِجُ : چوڑی پیٹھ والا۔ کبڑا۔ رَجُلٌ مُتَبِّجٌ : سببے ڈول مرد۔ الْمُتَبِّجَةُ : آلو۔ تَبَّوْرَةٌ (ن) : تبتوا : لعنت کرنا۔ دھکانا۔ محروم کرنا۔ ہلاک کرنا۔ عَنِ كَذَا : روکنا۔ مٹانا۔ تَبَّوْرًا : ہلاک ہونا۔ تَبَّوْرَتٌ (س) : تبتوا : القزحۃ : بھٹانا اور رہنا۔ تَبَّوْرٌ تَبَّوْرًا : و مُتَبَّوْرَةٌ : عَلَيَّ الْأَمْرُ : مداومت کرنا۔ تکلی کرنا۔ تَبَّرَ : فَلَا تَبَّارَ الشَّيْءُ : کسی کو کسی چیز پر روک دینا اللَّهُ فَلَا تَبَّارًا : ہلاک کرنا۔ تَبَّوْرًا : نایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ الغَبْرَةُ : نرم زمین۔ زمین یا پہاڑ کا گڑھا۔ المَغْبَرُ : بوچرخانہ۔ عورت یا اونٹنی کے جھنے کی جگہ۔ المَغْبَرُ : روکا ہوا۔ محروم۔ الغَبْرَةُ : گھلیان میں صاف کیے ہوئے غلہ کا ڈھیر۔ تَبَّطَّءَ (ن) : تَبَّطَّأَ وَتَبَّطَّأَ : عَلَيَّ الْأَمْرُ : روکنا باز رکھنا۔ عَلَيَّ الْأَمْرُ : کسی کو کسی کام پر موقوف رکھنا۔ أَبْطَطَ : المرض : بیماری کا ہدانا ہونا۔ تَبَّطَّطَ : عَلَيَّ الْأَمْرُ : روکنا۔ رکنا۔ الْفَيْطُ : کمزور۔ بیوقوف۔ ج۔ الْبَطَّاطُ وَفَيْطُ مُونِثُ بَيْطَةَ۔ تَبَّقَ (ض) : تَبَّقَا وَتَبَّقَا : التَّهْمُ : بانی کی زیادتی سے تیز رہنا۔ العَيْنُ : جلدی آنسو بہانا۔ الْفَيْلُ وَالفَيْلُ : برتن کی تلی کا پانی ماندہ تَبَّنَ (ض) : تَبَّنَا وَتَبَّنَا : العُوبُ : کنارہ موڑ کر سینا۔ () وَتَبَّنَ الشَّيْءُ : پھانسر میں لینا۔ پانچاس کے نیند میں رکھ لینا۔</p>	<p>الْفَيْحَةُ : ج۔ التَّبِينُ وَالتَّبِينَانِ : ج۔ تَبَّنَ : پھانسر۔ الفَيْحَانِ : پھانسر کا کنارہ جبکہ اس کو موڑ لیں۔ المُتَبِّجَةُ : جمیلی جس میں عورت اپنا آئینہ وغیرہ رکھتی ہے۔ ج۔ مُتَبِّجَانِ۔ تَبَّى (ض) : التَّبْيَا : الشَّيْءُ : جمع کرنا۔ تَبَّى : الشَّيْءُ : جمع کرنا۔ تعظیم کرنا۔ درست کرنا۔ پورا کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَبَّى اللَّهُ لَهُ الْبِعْمُ“ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتوں کے انبار دیئے۔ عَلَى الْأَمْرِ : ہمیشہ رہنا۔ عَلَى فُلَانٍ : کسی کے خلاف مدد طلب کرنا۔ الثَّبَّةُ : حوض کا درمیان۔ جماعت۔ شمسواروں کی جماعت۔ ج۔ تَبَّاتٌ وَتَبَّوْنُ۔ الأَثْبِيَّةُ : بڑی جماعت۔ ج۔ أَثْبَانِي۔ الشَّيْءُ : لوگوں کی سمت تعریف کرنے والا۔ تَبَّنَ (س) : تَبَّنَا : المُحْمُ : بددواری ہونا۔ اللَّقَّةُ ڈھیلا ہونا۔ صفت تَبَّيْتَهُ۔ تَبَّجَ (ن) : تَبَّجُوا : المَاءُ : برسات (تَبَّجًا) المَاءُ : برسات۔ إِنْفَجَ : المَاءُ : برسات۔ الثَّبَّةُ : باغ جس میں حوض ہو۔ ج۔ تَبَّجَاتٌ مَطْوَرٌ (تَبَّجَاتٌ) : بہت برسنے والی بارش۔ عَيْنٌ (تَبَّجُوجٌ) : بہت پانی والا چشمہ۔ التَّبَّيْحُ : زبردست سلاب۔ الفَجَّيْحَةُ : دودھ کا جھاگ جو ہاتھ یا برتن میں چپک جائے۔ المَبَّجُ : ڈبان آور خطیب۔ تَبَّجَّجَ : المَاءُ : بہانا۔ تَبَّجَّجَ : بہانا۔ تَبَّجَّجَ (ن) : تَبَّجَّجُوا : العَصْرُ : مجبور کو برسی کھل کے ساتھ بہانا۔ تَبَّجَّوْرَةٌ : کشادہ کرنا۔ چوڑا کرنا۔ الفَجَّجَةُ : درمیان۔ وسط۔ کہا جاتا ہے ”أَقَامُوا فِي تَبَّجَّوْرَةِ الوَادِي“ انہوں نے وادی کے درمیان اقامت کی۔ بَسَلِي کی بڑیوں کے درمیانی حصہ کا ارد گرد۔ ج۔ تَبَّجَّوْرٌ : کہا جاتا ہے ”مَطْعَتُهُمْ فِي الفَجَّوْرَةِ الفَجَّرِ“ الفَجَّرُ وَالفَجَّرُ وَالفَجَّرُ : مِنَ التَّوْرُقِ وَخَوِهِ : موٹا اور چوڑا۔ فَجَّلَ (س) : تَبَّجَّلًا : بڑے چھت والا ہونا صفت (الْحَجَلُ) : مونث تَبَّجَّلًا : ج۔ تَبَّجَّلَ : کہا جاتا ہے</p>	<p>”مَزَادَةٌ لِّجَلَاءِ“ کشادہ تو شہ دان۔ تَبَّجَّجَتْ (ض) : تَبَّجَّجُوا : التَّجَمُّعُ : التَّجَمُّعُ : جلدی سے برساتا۔ تَبَّجَّجَهُ عَنَهُ : جلدی سے باز رکھنا۔ تَبَّجَّجَانِ (ض) : تَبَّجَّجُوا : خاموش رہنا۔ أَتَبَّجَّجَاهُ : خاموش کرنا۔ تَبَّجَّجَ (ك) : تَبَّجَّجْنَا وَتَبَّجَّجْنَا : تَبَّجَّجْنَا : موٹا ہونا۔ سخت ہونا۔ صفت (تَبَّجَّجَانِ) : ج۔ تَبَّجَّجْنَا۔ أَتَبَّجَّجْنَا : فِي الْأَمْرِ : مبالغہ کرنا۔ فِي العَدْوِيَّةِ : خونریزی میں مبالغہ کرنا۔ فِي الْأَرْضِ : سخت خونریزی کرنا۔ أَتَبَّجَّجْنَا العَجْرَاحُ : بہت دکھ زور کرنا۔ إِنْفَجَّجْنَا : بہت دکھ زور ہونا۔ إِسْتَفَّجَّجْنَا : منہ المرض او النوم : غالب آنا۔ لَدَغَ (ف) : لَدَغْنَا : رَامَهُ : چلانا۔ پھوڑنا۔ إِنْفَدَّغَ : چلانا۔ لَدَّقَ (ن) : لَدَّقْنَا : المَطَرُ : بارش ہونا۔ السَّحَابُ : برساتا۔ صفت لَدَّقُوا۔ الْفَدَّقُ : بیوقوف۔ إِنْفَدَّقَ : الناس علیہ : حملہ کرنا۔ لَدَّمَ : الْإِبْرِيْقُ : چھننا۔ الْفَدْمُ : گھنگھو اور حجت میں عاجز۔ بیوقوف سُتْ : مُونِثُ لَدَّمَ۔ الْبِدَامُ : چھننا۔ لَدَّنَ (س) : لَدَّنَا : المُحْمُ : بددواری ہونا۔) وَلَدَّنَ : الرَّجُلُ : بڑا گوشت اور بیماری ہونا صفت (لَدَّنَ وَوَلَدَّنَ)۔ أَلَدَّنَ : الشَّيْءُ : چھوٹا کرنا۔ لَدَّاهُ (ف) : لَدَّوْنَا : تڑ کرنا۔ لَدَّى (س) : لَدَّى : تڑ ہونا۔ الْقَدَى وَالقَدَى : پستان (مَدَّكَرُ مُونِثُ) ج۔ لَدَّى وَلَدَّى وَوَلَدَّى۔ القَدِيَانِ : بڑی پستان والی عورت۔ قَدَّرَ (ض) : قَدَّرْنَا وَوَلَدَّرْنَا وَوَلَدَّرْنَا : الشَّيْءُ : کشادہ ہونا۔ السَّحَابَةُ : او العَيْنُ : بہت پانی والا ہونا۔ صفت مُونِثُ قَدَّرَةَ وَلَدَّرُونَ : صفت مَدَّكَرُ (ض) : قَدَّرَ : کہا جاتا ہے۔ ”مَطَّرَ قَدَّرَ“ بڑی بوندوں کی کثیر بارش ” وَقَدَّرَ</p>
--	---	--

ثوب: کشادہ قدم رکھنے والا گھوڑا۔ "شاة ثوبه"
کشادہ سوراخ۔ پستان۔ اور زیادہ دودھ والی
بکری۔

ثوبه (ن) ثوبا: حترق کرنا۔ الشحابة
ماءها برسانا۔

ثوبه المكان: حرکنا۔

الثوب: بست بولنے والا۔

الثوبه: بست بولنے والی۔

الثوبه: من الثوبين: بست پانی والا چشمہ۔

ثوبه (ض) ثوبنا و ثوبه و ثوب علیہ و ثوبه:
ملاست کرنا۔ فصل کی خدمت کرنا۔ "الثوب
الکثیر" زیادہ پردے کی چربی والا ہونا۔ صفت
(ثوب) : مؤنث ثوبیاء۔

الثوب: پردے کی چربی۔ ج ثوب و الثوب۔

ج ثواب۔

الثوب: بکری بڑی کرنے والا نساوا گمیز۔

الثوب: الکلیاں۔

ثوب ثوبه: الشی: بکیرنا۔ حترق کرنا

الثوب: دای جاتی بک بک کرنا۔

صفت (ثوبان)

ثوبان (ن) ثوبان و ثوبان الثوب: رونی توڑ

کر شوربے میں تر کرنا۔ صفت مفعول (ثوب)
و مشرود) خرید تیار کرنا ثوب الثوب: کپڑا رنگ
میں بھلوانا۔

ثوب و ثوبه: من المعركة: میدان جنگ سے

زخمی اٹھایا جانا۔

الثوب: ہلکی بارش۔

الثوب: ہونٹوں کی چھین۔

الثوب: پیٹے ہوئے ہونٹوں والا۔

الثوب و الثوبه: شوربے میں ترکی ہوئی

روٹی۔ ج ثوب و ثوبه۔

أرض (مشرودة و مشرودة) زمین جس پر ہلکی

بارش ہوئی ہو۔

الثوب: سریش۔

ثوب (س) ثوبنا و الثوب: طعل ہونا۔

الثوبه: سرخ کی گردن کے پر۔

الثوب: بارہ لومڑی۔

الثوب: ایک قسم کی گھاس۔

ثوبه (ض) ثوبنا و ثوبه: جز سے دانت توڑنا۔

ثوب (س) ثوبنا و الثوب: ٹوٹے ہوئے دانت والا

ہونا۔ صفت الثوب۔ مؤنث ثوبان ج ثوب۔

الثوبان: ایک درخت ہے اثنان کی مانند جس

کی اونٹ اور بکری کھاتے ہیں۔

الثوبان: شب و روز زمانہ و موت۔

ثوبان (ن) ثوبنا و ثوبی (س) ثوبی و الثوب: بست

مال والا ہونا۔ ثوبه: مالدار میں بڑھ جانا۔ ثوبه

الثوب: زیادہ کرنا۔

الثوبی و الثوب: بست مال والا ہونا۔ صفت (ثوبی و

ثوبی و الثوبی) مؤنث ثوبیاء۔

الثوب و الثوبه: مال یا قوم کی کثرت۔

الثوب: مالدار عورت (ثوبیاء کی تصغیر ستاروں

کے مجموعے کا نام۔ جماد۔

الثوبان: بست مال والا۔

ثوبی (س) ثوبی و الثوبی: الثوب: خشک

ہونے کے بعد تر و نرم ہونا۔ صفت (ثوبی و الثوبی)

مؤنث ثوبیاء و ثوبیاء۔ الثوب الأرض: زمین کا

نمناک ہونا۔

ثوبیہ: حرکنا۔ المكان: چھڑکنا۔

الثوبی: تری۔ (۔ و الثوب) نمناک مٹی۔

خیر ج ثوبه: کہا جاتا ہے "ییس الثوبی یتھم"

یعنی وہ لوگ آپس میں دوست ہونے کے بعد

دشمن ہو گئے۔ "فلان قریب الثوبی" یعنی فلاں

خیر سے قریب ہے۔

الثوبی و الثوبی: من الثوب: بست مال۔ ریح

ثوبیہ: بست تیزے۔

الثوبی و الثوبی: بچھڑ۔

ثوب (ن) ثوبا: الصبی: پاستانہ کرنا۔ (ض ن)

الثوب: لٹکا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

والا ہونا۔

الثوب: لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا و لٹکانا

لثوب (س) لثوبنا و لثوبنا: بیوقوف ہونا۔

لثوب (ف) لثوبنا و لثوبنا: ظاہر ہونا۔

لثوب: لثوبنا و لثوبنا: زکام زدہ ہونا۔

لثوب: لثوبنا و لثوبنا: زکام۔

لثوب: لثوبنا و لثوبنا: زکام زدہ۔

لثوب: لثوبنا و لثوبنا: کھانے پینے میں فراخی۔

لثوب (ض) لثوبنا و لثوبنا: کھایا ہونے کرنا۔

لثوب: لثوبنا و لثوبنا: من فمه و اللثوب من آفیه

أو جز حبه: تے ہونا۔ لثوبنا: ہرنا۔

لثوب (ف) لثوبنا و لثوبنا: جاری کرنا۔ علیہم

لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

لثوبنا و لثوبنا: لثوبنا و لثوبنا

الثقل: سست رفتار اوست وغیرہ۔
 الثقل: بجلی کے نیچے پھانے کا پڑنا۔
 والثقل: بجلی کا چلنا۔
 الثقل والثقل: تجھٹ۔ الثقل: گوبر۔
 الثقل: تجھٹ کمانے والا۔
 ثَقَنْتُ (ض) ثَقْنَا۔ ثقافة گھٹنے سے مارنا۔
 ثَقْنَهُ: دفع کرنا۔ مارنا۔ ثَقْنُ الشئ: لازم ہونا۔
 ثَقَنْتُ (س) ثَقْنَا۔ يَدُهُ: کام کرنے سے سخت ہونا۔ الثَقْنُ العَمَلُ يَدُهُ: سخت کرنا۔
 ثقافة: ہم زانو ہو کر بیٹھنا۔ کسی کے ساتھ لگے رہنا یہاں تک کہ اس کا ہمید معلوم کر لینا۔
 على كذا: مدرکنا۔
 الثقفة: من التبعير: اوست کا وہ حصہ جو بیٹھتے ہوئے زمین پر لگے اور سخت ہو گیا ہو کہا جاتا ہے۔
 "خوى التبعير على ثقفاه" یعنی اوست بیٹھ گیا۔
 من الانسان: زانو۔ من الخيل: گھوڑے کے زانو کا اندرونی حصہ۔ ج ثقفات الثقفة: لوگوں کی جماعت۔
 ثقفا (ن) ثقفوا: تابع ہونا۔ بیوی کرنا۔ پیچھے جانا۔
 الثقى: الزجل: تین عورتوں سے نکاح کرنا۔
 وثقى: القدر: ہانڈی کو چمکے کے پايہ پر رکھنا۔
 المثقنى: وہ شخص جو تین یا زیادہ بیویوں کو دفن کر چکا ہو۔
 المثقاة: وہ عورت جس کے تین یا زیادہ شوہر مر چکے ہوں۔
 ثقب (ن) ثقبنا: الشئ: سوراخ کرنا۔ چھیدنا۔
 ثقوبا: النار: روشن ہونا۔
 الثجم: چکنا۔ الظل: اونچا اڑنا۔
 الثقافة: بہت دودھ والی ہونا۔
 زاية: نافذ ہونا۔ الزاحة: چیلنا۔
 ثقب (ک) ثقابة: سرخی میں آگ کے مشابہ ہونا۔ صفت (ثقب) مؤنث ثقيبة۔
 ثقب و ثقفت: الشئ: سوراخ کرنا۔ چھیدنا۔
 ثقبه الشئ و ثقب فيه الشئ: بڑھاپا کا ہر ہونا۔ ثقب و ثقفت: النار: روشن کرنا۔ ثقفت و انثقفت: سوراخ ہونا۔

الثقور: منقذ۔
 الثقوب: زرد دانت۔
 الثقم: الوادى: درخت ثعامہ والی ہونا۔
 الراش: سفید ہونا۔ الزجل: غضبناک بنانا۔ جلاء یعنی کرنا۔
 ثاغمة: بوسہ دینا۔
 الثعيم: کاٹنے والا کتا۔
 الثعام: ایک قسم کا سفید چولوں والا درخت واحد ثعامہ۔
 الثاعم: سفید۔
 ثقت (ن) ثقاء: الشاة: مینا۔ کہا جاتا ہے "ثاله لاغية ولا زاعة" اس کے پاس نہ بکری ہے نہ اونٹنی۔ "ومابالذراغ ولا راغ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔
 الثقاء: الشاة: مینا پر اکسانا۔ کہا جاتا ہے "آبته فما الثقى ولا أزعى" میں اس کے پاس آیا تو اس نے نہ بکری دی نہ اونٹنی۔
 الثقية: بھوک۔ اور قبیلہ کا خلی ہونا۔ کہا جاتا ہے "أصاب الحى ثقية" قبیلہ بھوک میں جلاء ہے۔
 ثقار (ف) ثقا: القدر: جوش ٹھنڈا کرنا۔
 الثقاء: راتى واحد ثقاة۔
 ثقد: الدرغ: زرہ کو لباس کے نیچے پہننا۔
 الثقايد: اوپر تلے سفید بادل () و المثايد: کپڑوں کے آستر واحد مثقد۔
 الثقور: ثقر: الحمار: پیچھے سے ہانکنا۔
 استثقف: الكلب يذنيه: دم دینا۔
 المثصاع: يتقوبه: لنگوٹ کتنا۔
 الثقر و الثقر: زين کے پچھلے حصہ کا تہرج۔
 الثقر: انقار۔
 ثقل (ن) ثقلا و ثقل: الزحى: بجلی کے نیچے چڑھنا۔ الشئ: یکبارگی کھیر دینا۔
 الثقل: الحقر: تھرا۔ الثواب: تجھٹ والا ہونا۔
 ثاقلة: ہم نشینی کرنا۔
 ثقل: محمد و بزرگی سے کوٹا ہونا۔ کہا جاتا ہے "ثقله عزقى شؤء" اس کو بد اصلی نے محمد و بزرگی سے کوٹا ہارنا۔ اسے بیٹھنا۔

کہ اس کے بال ہر سال گر جاتے ہیں اور اسی سے ہے "دار الثعلب" اس بیماری کا نام ہے جس میں بال گرتے ہیں۔ مادہ کو ثعلبية اور نرکو ثعلبان کہتے ہیں۔ اور ثعلب کا اطلاق مذکورہ مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ ج ثعلاب و ثعلال۔ الثعلب: بھالے کا سرا جو پھل کے اندر داخل ہو۔
 الثعلبية: دم کی بڑی۔ سرین۔
 عنت الثعلب: بکوسے۔ کہا جاتا ہے "مكائى (ثعلب) و أرض (ثعلبية) بہت لومڑیوں والی جگہ یا زمین۔
 ثقب (ض) ثقبنا: الجمذ: چھلنا۔ الدم: برتا۔
 تثقت: لثته بالدم: سوسے سے خون برتا۔
 الثقب: ج ثغاب و ثغاب و الثقب: ج ثغبان و ثغبان: پہاڑ کے سایہ میں تالاب جہاں دھوپ نہ ہوئے اور اس وجہ سے پانی ٹھنڈا ہو۔
 ثقف: ثقفنا: كلامه: گفتگو میں خلط طوط کرنا۔ صفت (ثقف و ثقفاغ): کہا جاتا ہے "فلاى يثقف فى كلامه" فلاں گفتگو میں گڑبڑی کرتا ہے۔
 ثقر (ف) ثقرا: الاناء: سوراخ کرنا یا توڑنا۔
 سته: آکھینا۔ الثلثة: بند کرنا۔
 الجدار: گردنا۔ الزجل: رات توڑنا۔ کہا جاتا ہے "ثقرهم و ثقر علبهم" اس نے ان پر پہاڑ کے درے کو بند کر دیا۔
 ثقر و الثقر: منه کلا جانا۔ الصبي: رات توڑنا لکنا۔
 الثقر و الثقر: الصبي: ہانت توڑنا لکنا۔
 الثقر: اگے دانت۔ شد۔ سرحد۔ پہاڑی وادی کی کھلی۔ ج الثقر: کہا جاتا ہے۔ "أضوا الثقر" یعنی وہ لوگ متحرک ہو گئے۔
 الثقرة: رخت۔ ثقل کی بڑیوں کے درمیان کا کڑوا۔ آسان راستہ۔ اور اسی سے ہے "هو يتخرق ثقر المجد" وہ بزرگی کے راستوں پر چلا ہے۔
 الثقور: ملک کی سرحدوں پر خوف کی جگہ۔

الثَّقِبُ: سوراخِ جِ أَثْقَبُ وَثُقُوبٌ.
الثَّقِبَةُ: چھوٹا سوراخِ جِ ثُقُوبٌ وَثُقُبٌ
الثَّقَابُ وَالثُقُوبُ: چھٹی۔ چھوٹی چھوٹی
کڑیاں جن سے آگ ساگلی جاتی ہے اور جس کو
عوامِ شُحُطٌ یَلْبُطُ کہتے ہیں۔
الثَّقَابُ: زائِحٌ ثَائِبٌ: عمدہ رائے۔ ”عقل“
ثَائِبٌ“ عقلِ کامل۔ حَسْبُ ثَائِبٌ: مشور
حسبِ کما جاتا ہے نحنِ أَثْقَبُ النَّاسِ
أَحْسَابًا“ ہم لوگوں میں حسب کے لحاظ سے
مشہور ہیں۔
الثَّقُوبُ: امور میں بہت زیادہ دخل دینے
والا۔
المِثْقَبُ: برہا۔ سوراخ کرنے کا اوزار۔ کہا جاتا
ہے ”رَجُلٌ مِثْقَبٌ“ یعنی سجدہ دار تجربہ کار عمدہ
رائے والا۔
المِثْقَبُ وَالمِثْقَبُ: بڑا راستہ۔ سخت و
دشوار راستہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ ظَلَّغٌ
الصَّفَاقِبُ“ یعنی وہ بہادر ہے۔
المِثْقَبُ: سوراخ کیا ہوا۔
ثِقْفٌ (س) وَثِقْفٌ (ک) ثِقْفًا وَثِقْفًا
وَثِقْفًا: زبرک و سبک و چالاک ہونا۔ صفت
(ثِقْفٌ وَثِقْفٌ وَثِقْفٌ وَثِقْفٌ)
ثِقْمَهُ (س) ثِقْفًا: کامیاب ہونا۔ فتح مند ہونا۔
پالہ۔ (ثِقْفًا وَثِقْفًا وَثِقْفًا) الْكَلَامُ:
جلدی سے سمجھ لینا۔
ثِقْفَهُ (ن) ثِقْفًا: دانائی میں غالب ہونا۔
بالروح: نیرہ مارنا۔
ثِقْفٌ: الوُضُوحُ: سیدھا کرنا۔ الوَلْدَةُ:
مہذب بنانا۔ تعلیم دینا۔
ثَائِقَةٌ: ہتھیاروں سے باہم کلینا۔ دانائی میں
غالب ہونے کی کوشش کرتا۔ جھگڑا کرتا۔ کہا جاتا
ہے ”ثَائِقْتُهُ لَفَقْفْتُهُ“ یعنی میں نے اس پر غالب
آنے کی کوشش کی اور غالب ہو گیا۔
ثَقَّاقًا: باہم جھگڑا کرتا۔ دانائی میں ایک
دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔
العِصَافُ: جھگڑا۔ نیزوں کے سیدھا کرنے کا
اوزار۔
إِمْرَأَةٌ ثَقَافٌ: ذکی و ذہین عورت۔

الثَّقِيفُ: بہت زبرک و چالاک۔ خَلٌّ ثَقِيفٌ:
بہت کھٹا سرکڑ۔
المِثْقَبُ: شعراء کے عرف میں بمعنی نیزہ۔
ثَقْلٌ (ک) ثِقْلًا وَثِقَالَةً: ہماری ہونا۔ صفت
(ثَقِيلٌ وَثِقَالٌ وَثِقَالٌ جِ ثِقْلًا وَثِقَالٌ وَثِقْلٌ
السَّمْعُ: کچھ بھرا ہونا۔ القَوْلُ:
سننا ناگوار ہونا۔ المَرْؤَةُ: حمل ظاہر ہونا۔
ثِقْلَةٌ (ن) ثِقْلًا: وزن معلوم کرنے کے لیے
ہاتھ میں اٹھانا۔
ثَقْلٌ (ک) ثِقْلًا: المَرْئِضُ: سخت بیمار ہونا۔
ثِقْلَةٌ: بوجھل کرنا۔ الحَزْفُ: تشدید
دینا۔ عَلِيَّةٌ: ہماری بوجھ لانا۔ هُ
المَرْضُ: سخت ہونا۔ ”أَثَقَلَتِ المَرْؤَةُ“ حمل کا
بھاری ہونا اور ولادت کا وقت قریب ہونا۔
ثَقَّالٌ: بکلف ثَقْلٌ ظاہر کرنا۔ عِنْدَ: دیر
لگانا۔ القَوْمُ: باوجود طلب کیے جانے
کے مدد کے لیے نہ اٹھنا۔
إِنثَاقِلٌ إِلَى الدُّنْيَا: ناکل ہونا۔
إِسْتَقْفَلُ: الشَّيْءُ: بوجھل ہونا۔
الشَّيْءُ: بوجھل پانا۔ بِفُلَانٍ: بوجھ کو
محسوس کرنا۔
الثَّقِيلُ: بوجھل۔ مرضِ ثَقِيلٌ: سخت مرض۔
دِيْبَارٌ ثَقِيلٌ: پورا دینارِ جِ ثَوَاقِلُ: کہا جاتا ہے
”أَضْحَجُ ثَقِيلًا“ یعنی اس کو مرض نے بوجھل کر
دیا۔
الثَّقَلُ: مسافر کا سامان اور اس کے نوکر چاکر۔ کہا
جاتا ہے ”أَعْطِيهِ ثِقْلَهُ“ اس کو اس کے برابر دید و ج
انقال۔ وَالثَّقَالُ: زمین کے تزانے اور وچھنے۔
مزورے۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَإِخْرَاجُ
الأَرْضِ أَثْقَالَهَا﴾ اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال
چھینے کی۔
الثَّقَلُ: گرانہاری۔
الثَّقَلَةُ وَالثَّقَلَةُ وَالثَّقَلَةُ وَالثَّقَلَةُ:
کل سازو سامان۔ کہا جاتا ہے ”وَإِذْ تَخْلَعُوا
بِثِقَابِهِمْ“ وہ لوگ مع اپنے پورے سازو سامان
کے چلے گئے۔ الثَّقَلَةُ: بیٹھ میں خوراک کی
گرائی۔ اوگھ۔ کہا جاتا ہے ”وَجَدْتُ ثِقْلَةً فِي
جَسَدِي“ میں نے اپنے بدن میں سستی محسوس

کی۔
المِثْقَالُ: تولے کے اوزان۔ وَالمِثْقَالُ الشَّيْءُ:
بیز کا وزن یا چیز کی ترازو۔ جِ مِثْقَالِ اور مِثْقَالِ
وزن میں ڈیڑھ درہم کے وزن کا ہوتا ہے اور
کبھی کم اور کبھی زیادہ۔
ثِقْلٌ (س) ثِقْلًا وَثِقْلًا: اِثْمٌ: گم کرنا۔
صفت (ثَقِيلٌ وَثِقْلَانٌ): مؤنث ناکل
وَثِقَالَةٌ وَثِقَالَةٌ جِ ثَوَاقِلُ وَثِقَالَةٌ:
أَثَقَلَ: الأَمْرُ وَلَهَا وَأَثَقَلَ الثَّوَدُ أُمَّهُ: بیچ
سے ماں کو گم کر دینا۔ اور میں کے سامنے بیچے کا
مر جانا۔
الثَّقُولُ وَالمِثْقَالُ: بیچے کو بہت گم کرنے
والی عورت۔ جمع مِثْقَالِيَّةٌ: کہا جاتا ہے ”نِسَاءُ
المَرْؤَةِ مِثْقَالِيَّةٌ“ عازیوں کی عورتیں بیچے کو گم
کرنے والی ہیں۔
المِثْقَالَةُ: سب گھمگدھی فرزند۔ کہا جاتا ہے
زَمِنَهُ لَوِّ الذَّاتِ مِثْقَالَةً“ اس کا نیزہ ماؤں کے
لیے بچوں کے گم کرنے کا سبب ہے۔
ثِقْمٌ (ن) ثِقْمًا: الامْرُؤُ الطَّرِيقُ: کسی امر یا
کسی راستے کیلئے لازم ہونا۔ الأَثَارُ: پیروی کرنا
لہ الامْرُ: واضح طریقہ سے بیان کرنا۔
وَثِقْمٌ (س) ثِقْمًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
ثِقْمٌ: الطَّرِيقُ وَثِقْمَتُهُ: راستہ کار درمیان
الثَّقْنَةُ: کبوتروں کی ڈار۔ فوجوں کا مرکز۔
لوگوں کی جماعت۔ چھپایوں کا گلد۔ گردن بند
جھنڈا۔ جِ ثِقْنٌ: کہا جاتا ہے ”حَصَامٌ ثِقْنٌ“ یعنی
آٹھنے کو تیر۔
ثَلٌّ (ن) ثَلًّا: البِئْسُ: کنوئیں سے مٹی نکالنا
الْوَعَاءُ: برتن سے سب کچھ نکال لینا
ثَلًّا ثَلًّا: القَوْمُ: ہلاک کرنا۔
البَيْتُ: گرا دینا۔ وَحَارَبْنَا: کہا جاتا ہے ”ثَلَّ اللّٰهُ
عَرْشَهُمْ“ یعنی اللہ نے ان کے تلک کو ربو کر
دیا۔ وَثَلَّ عَرْشَهُمْ: ان کی عزت ضائع ہو گئی
الثَّرَابُ: گرا دینا۔ وَثَالًا: ثَلٌّ ذِي
خِصَابٍ: لہد کرنا۔
أَثَلَهُ: اِفْلَاحًا: مرمت کرنے کا حکم دینا۔ وَالثَّوَجُلُ
بہت بھیڑوں والا ہونا۔ فَهْمٌ: بے دانت والا
ہونا۔

ثَلْبَجَت (س) ثَلْبَجًا وَالثَّلْجَت. ثَلْبَسِي بِهِ: مطمن ہوا۔ خوش ہوا۔

ثَلْبَجُ ثَلْبَجًا: بلبہ الیچ ہوا۔ صفت (مفلوج) الثَّلْجُ: برف۔ ثَلْبَجَتِ الْأَرْضُ وَالثَّلْبَجَت: برف پڑنا۔

الثَّلْبَجَةُ: خوش کرنا۔ الثَّلْبَجُ القَوْمُ: برف میں داخل ہونا۔ الثَّلْبَجَتُ عَثَةُ الثَّمَنِ: زائل ہونا۔ الثَّلْبَجُ مَاءُ البَهِيرِ: خم ہونا۔

الثَّلْبَجُ: برف۔ ج ثَلْبُوج۔ واحد ثَلْبَجَةٌ۔ مَاءُ الثَّلْبَجِ: ٹھنڈا پانی۔

الثَّلْبَجُ: عتاب کا چوڑھ۔

الثَّلْبَجُ: برف بیچنے والا۔

الثَّلْبَجِيُّ: بست سفید۔ کہا جاتا ہے "فصل الثَّلْبَجِيِّ"

الثَّلْبَجَةُ: برف کی حفاظت کی جگہ۔

الثَّلْبُوجُ: برف پڑی ہوئی چیز۔ رَجُلٌ مَثْلُوجٌ الثَّلْجُ: بلبہ الیچ مرد۔ مَاءُ مَثْلُوجٌ: برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی۔

ثَلْبَجُ (ف) ثَلْبَجًا: بلبہ الیچ۔ گور کرنا۔

ثَلْبَجُ (س) ثَلْبَجًا: گور میں آلودہ ہونا۔

ثَلْبَجُ (ض) ثَلْبَجًا: بلبہ الیچ۔ بچلا سگانہ کرنا۔

ثَلْبَجُ (ض) ثَلْبَجًا: الثَّلْجُ أَوْ الثَّلْبَجُ: بچلا سگانہ کرنا۔

ثَلْبَجُ (ف) ثَلْبَجًا: مَسَاءً: بچلا۔ توڑنا۔

ثَلْبَجُ (ف) ثَلْبَجًا: مَسَاءً: بچلا۔ توڑنا۔

الثَّلْبَجُ: مِنَ الثَّلْجِ: پھٹ کر زمین پر گری ہوئی بھجور۔ تم کہتے ہو۔ "تَنَالَتِ القِصَارُ الثَّلْبَجُ" پھل بھجور کے اور پھٹ گئے۔

ثَلْبَجُ (ض) ثَلْبَجًا وَالثَّلْبَجُ: الثَّلْبَجُ: رخنہ ڈال دینا۔ الإِنَاءُ: کنارے سے توڑنا۔

ثَلْبَجُ (س) ثَلْبَجًا وَالثَّلْبَجُ: الثَّلْبَجُ: رخنہ پڑنا۔

ثَلْبَجُ ثَلْبَجًا فِي مَالِهِ: بچھ صالح ہونا۔

الثَّلْبَجُ: ج الثَّلْمُ وَالثَّلْمَةُ: فِي الثَّلْبَجِ وَالثَّلْمِ: خنک۔ رخنہ۔ غل۔ ٹوٹی ہوئی جگہ۔

الثَّلْمُ: ہر وہ چیز جس کا رخنہ ظاہر ہو۔ مٹی پتھر۔ قَمُ (ن) ثَلْمًا: الثَّلْمُ: درست کرنا۔ تم کہتے ہو "قَمَمْتُ أُمُودِي" میں نے اپنے امور کو درست کر لیا۔ قَمَمْتُ الشَّاةُ الثَّبْتَ بَقَمْعِهَا:

الثَّلْمُ: القَوْمُ: تین ہونا۔ تیس ہونا۔ ثَلْمًا "كَمَا نَأُوا بِنِعْمَةٍ وَعَشْرِينَ فَالثَّلْمُ" وہ لوگ اتیس تھے تیس ہو گئے۔

الثَّلْمَةُ: تین۔ مؤنث ثَلْمَاتُ۔

ذُو الثَّلْمَاتِ: تین لڑکوں والی رشتی۔ اور تم کہتے ہو "فَعَلَهُ ذُلًا قَامًا" اس نے اس کو تین مرتبہ کیا۔

الثَّلْمُ: اُونٹنی کا تیسرا پیر۔ کہا جاتا ہے "مَنْعَى زَوْجَهُ الثَّلْمُ" اس نے اپنے کھیت کو تین دن میں ایک مرتبہ پانی دیا۔

الثَّلْمُ وَالثَّلْمُ: ترائی۔ ج الثَّلْمَاتُ۔ اور اسی معنی میں (الثَّلْمِ) ہے۔

الثَّلْمَاءُ وَالثَّلْمَاءُ وَالثَّلْمَاءُ: مشکل۔ اس کا شنیہ ثَلْمَاءُ ان: اور جمع ثَلْمَاتُ وَالثَّلْمَاءُ اسوا الثَّلْمُ۔

الثَّلْمُ: موٹے حرفوں والا خط۔

الثَّلْمَاتُ أَوْ الثَّلْمُ: وہ تین تین آئے۔ یہ غیر منصرف ہے اور مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہے۔

الثَّلْمَانُ وَالثَّلْمَانُ: کونے کا پودہ۔

الثَّلْمُونَ: تیس (قد کرو مؤنث)

الثَّلْمُ: تین سے مرکب۔

الثَّلْمُ: جو تانت کہ تین لٹ کا ہو۔ ہر پلہ باہم کا تیسرا تانت۔ ج معالیت۔

الثَّلْمُ وَالثَّلْمُ: بادشاہ کے پاس چل خوری کرنے والا۔

الثَّلْمُ: مِنَ الثَّلْمِ: تین نکتوں والا یا تین حرکتوں والا۔ وَالثَّلْمُ فِي الِهْتِدَاءِ: تین ضلعوں والی شکل۔

الثَّلْمُ: تین سے مرکب۔ وہ چیز جس کی ترائی لے لی گئی ہو۔ مِنَ الثَّلْمِ: تین لٹوں کی مٹی ہوئی رشتی۔ ج مَسَاءُ ثَلْمُونَ: اُون بال اور اُونٹوں کے بال کا ہونا اکسبل۔

الثَّلْمُ: تین چڑے کا ہونا توڑنا۔

ثَلْبَجَتِ (ن) ثَلْبَجًا وَالثَّلْبَجَتِ السَّمَاءُ: برف گرنا۔ تم کہتے ہو ثَلْبَجَتِ السَّمَاءُ یعنی ہمارے اوپر برف پڑی۔

ثَلْبَجَتِ (ن) ثَلْبَجًا: ثَلْبَجِي بِهِ وَالثَّلْبَجُ: خوش ہونا۔ مطمن ہونا۔

ثَلْبَجَتِ البَيْتُ: آہستہ آہستہ گرنا۔

ثَلْبَجَتِ: بڑھے جانا۔ گر جانا۔

الثَّلْبَجُ: ہلاکت۔ رانٹوں کا گرنہ۔

الثَّلْبَجُ: ہلاکت۔ ج ثَلْبَجُ۔

الثَّلْبَجُ: بھجڑوں کا ریوڑ۔ اُون۔ کہا جاتا ہے "كَيْسَاءُ جَبَدِ الثَّلْبَجِ" عمرہ اُون کا کبل۔ کنوئیں کی نکال ہوئی مٹی۔ ج ثَلْبَجُ وَالثَّلْبَجُ: اُون بال اور اُونٹوں کے بال کا مجموعہ۔

الثَّلْبَجُ: لوگوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے۔ "فَالْبُحْرُ لَا يَفْتَرِقُ بَيْنَ الثَّلْبَجِ وَالثَّلْبَجِ" فلاں بھجڑوں اور آدمیوں کی جماعت میں فرق نہیں کرتا۔

الثَّلْبَجُ: نسبتی دہلائی۔ جمع ثَلْبَجُ۔ الثَّلْبَجَةُ: بیابان میں سائبان۔

ثَلْبَجِي (ض) ثَلْبَجًا: عیب لگانا۔ سلامت کرنا۔ عیب کرنا۔ کالی دینا۔ دھکارنا۔ الثَّلْبَجِيُّ: رخنہ ڈالنا۔

ثَلْبَجِي: برف پڑنا ہونا اور رانٹوں کا گر جانا۔

ثَلْبَجِي (س) ثَلْبَجًا: الثَّلْبَجِيُّ: رخنہ دار ہونا۔

الثَّلْبَجِيُّ: سگڑنا۔

الثَّلْبَجِيُّ: بڑھا اُونٹ جس کے دانت گر گئے ہوں۔ ج ثَلْبَجِي وَالثَّلْبَجِيُّ۔

وَالثَّلْبَجِيُّ: عیب دار۔ زلیل۔ رخنہ ڈالنا۔ رخنہ دار نیزہ۔

الثَّلْبَجِيُّ وَالثَّلْبَجِيُّ: مٹی یا پتھر کا چوڑھ۔ ج الثَّلْبَجِيُّ۔

الثَّلْبَجِيُّ: وہ شخص جس کی عادت عیب لگانے کی ہو۔

الثَّلْبَجِيُّ: عیب۔ گالی۔ کہا جاتا ہے "مَاعَرَفْتُ لِيهِ مَثَلِيَّةً" میں اس کے اندر کوئی عیب نہیں جانتا۔ ج مَثَلِيَّةُ: مَثَلِيَّةُ الثَّلْمِ: کسی امر کے عیب۔

ثَلْبَجَتِ (ن) ثَلْبَجًا: الثَّلْبَجِيُّ: ترائی لینا۔

الثَّلْبَجِيُّ: ترائی بال لے لینا۔ تیسرا ہونا۔

ثَلْبَجَتِ: الثَّلْبَجِيُّ: اپنے کو لگا کر تین کر دینا۔ الثَّلْبَجِيُّ: ثلث بنانا۔

الثَّلْبَجِيُّ: ترائی باقی رہنے تک پکانا۔ الثَّلْبَجِيُّ: تین مرتبہ کرنا۔

برکی نے گھاس کو اپنے منہ سے صاف کر لیا۔
إِنْقَمَ : الْبُحْسُمُ : گھٹنا۔ کرور ہوتا
الشَّيْبُغُ : بڑھا ہوا۔ صفت (لثمة)
قَم و **قَمَّة** : وہاں۔ اسم ہے جس سے بعد کی
 طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔
القَم : ثمن کا مصدر بمعنی درست کرنا۔ اور اسی
 سے ہے ”قَمْنَا أَهْلَ قَيْبِهِ وَرَقَبِهِ“ ہم اصلاح
 و مرمت کے اہل تھے۔ اور کہا جاتا ہے۔ ”هو قَمَّةُ
 وَرَمْتُهُ او قَمَّةُ وَرَمْتُهُ او لَثْمَةٌ وَرَمْتُهُ“ وہ اس کا
 چید دردی قلیل و کثیر ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”عالمہ
 لَثْمٌ وَرَمْتٌ“ یعنی وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔
قَمٌ : حرف عطف ہے۔ ترتیب اور تراخی کے
 لیے مستعمل ہے۔ اور اس پر تاہمی آتا ہے کہا جاتا
 ہے **قَمْتُ**۔
الثَّمَّةُ : سوکھی گھاس کا ٹکڑا۔
القَمَامُ : ایک قسم کی گھاس جو لائی نہیں ہوتی
 واحد **قَمَامَةٌ**۔
المَقَمُ : مِنَ النَّاسِ : اچھا بڑا ہم قسم کا گھانا
 کھانے والا۔
قَمَاءُ (ف) **قَمَاءٌ** : چلی گھٹانا۔ **الزَّائِسُ** :
 چلانا توڑنا۔ **الْأَلْفُ** : کنارہ توڑنے سے
 خون بہتا۔
إِنْقَضَا : الزَّائِسُ : چلا جانا۔ ٹوٹنا۔
الْقَمُوتُ : وہ شخص جو صبح کے وقت پانچ گھنٹے
 کر دے۔
قَمَجَمُ (ض) **قَمَجَجًا** : باہم ملانا۔
المُقْتَمِجُ : مختلف رنگوں سے رنگنے والا۔
مَوْنَسٌ **مِنْمَجَجَةٌ**۔
قَمَدٌ (ن ض) **قَمَدًا** و **أَقَمَدًا** و **اسْتَقَمَدَ**۔
القَمَاءُ : پانی جمع ہونے کے لیے حوض کی مانند ہوتا۔
قَمَدُ الشَّيْءِ : فلانا : کسی کے پاس کسی چیز کا اس
 طرح ہونا کہ اس کا سارا مال ضائع ہو جائے۔
التَّاقَةُ **بِالْحَلَبِ** : روہنے میں اونٹنی کا
 دودھ کو سبک لینا۔
إِقْتَمَدُوا **الْمَدَوَاقِمَ** : تھوڑے پانی کی طرف
 جانا۔
اسْتَقَمَدَهُ : بخشش طلب کرنا۔
القَمَدُ و **القَمَدُ** : تھوڑا پانی جو جاڑوں میں جمع

رہے اور گرمیوں میں خشک ہو جائے گڑھا جس
 میں بارش کا پانی جمع ہو۔ **ج** **قَمَادٌ**
الْأَقَمَدُ و **الْأَقَمَدُ** : ایک قسم کا پتھر جس سے
 سرسہ تیار کیا جاتا ہے اور جس کو طلاء کہا گیا انیمون
 کہتے ہیں۔
زَجَلٌ (مَشْمُودٌ) : وہ شخص جس کو سائلین کی
 کثرت غمگین بنائے۔
قَمَرٌ (ن) **قَمْرًا** و **أَلْمَرُ** : الشَّجَرُ : چلدار
 ہوتا۔ صفت (ثامر و مضمیں)۔ **الْقَمَرُ** : الشَّجَرُ
الْقَمَرُ : پھل لانا۔ **القَمَرُ** : القوم : پھل گھٹانا۔
قَمَرٌ : صالہ : بوجھانا۔ زیادہ کرنا۔
اسْتَقَمَرُ : الشَّيْءُ : نتیجہ خیر بنانا۔
الزَّجَلُ : پھل پانا۔
القَمَرُ : پھل۔ واحد **قَمْرَةٌ**۔ **ج** **قَمَارٌ** **ج** **أَقَمَارٌ**
 و **قَمَرٌ**۔ **القَمَرَةُ** : نسل۔ اولاد۔ **قَمَرَةُ** **الْبَسَانِ** :
 زبان کا کنارہ۔ **السُّوْطُ** : چابک کے
 سرے کی گرہ۔ اور اسی سے ہے ”**أَقَمَرُ** **الْجَلَادَانِ**
يَذُقُ **قَمَرَةَ** **سُوْطِهِ**“ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ
 کوڑے کے سرے کی گرہ کو پھل لے۔ **قَمَرَةٌ**
الْقَلْبِ : دوستی۔ محبت۔ اور اسی سے ہے
 ”**حَضَيْنَ** **بِقَمَرَةِ** **قَلْبِهِ**“ اس نے مجھ کو اپنی دوستی
 کے لیے خاص کیا۔
القَامِرُ : لویا۔
شَجَرَةٌ **قَمْرَاءٌ** : پھل دار درخت۔ **أَزْجَلٌ**
قَمْرَاءٌ : بہت پھلوں والی زمین۔
قَمِيلٌ (س) **قَمِيلًا** : بہت ہونا۔ صفت (قَمِيلٌ)
قَمَلَةٌ (ن ض) **قَمَلًا** : فریاد رسی کرنا۔ گھٹانا پلانا۔
 نثراری کرنا۔
أَقَمَلَةٌ : مدہوش کرنا۔ **أَقَمَلُ** **الْبَيْنِ** : بہت
 جھاگ والا ہونا۔
 (**وَقَمَلُ** **الْبَيْنِ** : جھاگ اٹھنے کے لیے
 اچھانا۔
قَمَلٌ : صافی الاناء بیڑا۔
القَمَلَةُ **ج** **قَمُولٌ** و **(القَمَلَةُ)** **ج** **قَمُلٌ**
(القَمِيلَةُ) **ج** **قَمِيلٌ** و **قَمَائِلٌ** و **(القَمَالَةُ)** **ج**
قَمَالٌ : حوض یا برتن میں پانی مانہ پانی وغیرہ۔
القَمَالَةُ : جھاگ۔
القَمَالُ و **القَمَالُ** : زہر قاتل۔

قَمَالٌ : القوم : قوم کا فریاد رس۔
القَمِيلُ : گھٹا دودھ۔
القَمِيلَةُ : حوض۔ **قَمَالٌ**۔
القَمِيلَةُ : حوض کی تلی کی کچڑ۔ چرواہے کا
 تھیلا۔ جس کو وہ اپنے کندھے پر رکھتا ہے۔
قَمَيْنٌ (ن ض) **قَمَيْنًا**۔ **الزَّجَلُ** : کسی شخص کے
 مال کا آٹھواں حصہ لینا۔ **الشَّيْءُ** : آٹھواں
 حصہ لینا۔ **القوم** : آٹھواں ہونا۔
قَمِينٌ (ک) **قَمِينًا**۔ **الشَّيْءُ** : جیتی ہونا۔
قَمِينٌ۔ **الشَّيْءُ** : قیمت کا اندازہ کرنا۔ آٹھ حصوں
 والی ہونا۔
أَقَمِنَ۔ **القوم** : آٹھ ہونا۔ **أَقَمِنْتُ** **الْمَالَ**
زَيْدًا و **لِزَيْدٍ** **قَمِينًا**۔
القَمِينُ : بیع شدہ چیز کا بدلہ۔ قیمت **ج** **أَقَمِنَ**
وَأَقَمِنَهُ **أَقَمِنَ**۔
القَمِينُ و **القَمِينُ** : آٹھواں حصہ۔ **ج** **القَمِينُ** اسی
 معنی میں **قَمِينٌ** ہے اور **القَمِينُ** : جیتی۔
أَقَمِنَا **(أَقَمِنًا** و **قَمِينًا)** : وہ لوگ آٹھ آٹھ آئے
 (غیر مصرف ہے)
القَمِينِيَّةُ : آٹھ۔ **مَوْنَسٌ** **قَمِينًا**۔ اور تم کو گے
 ”**قَمِينِيَّةٌ** **عَشْرُونَ** **وَجَلَا** و **قَمِينِيَّةٌ** **عَشْرَةٌ** **أَمْرًا**“
القَمِينُ : آٹھواں۔
القَمَانُونَ : آتی۔ (۸۰)
القَمِينُ : وہ چیز جس کی قیمت کا اندازہ کیا گیا
 ہو۔ بہت پھل۔ آٹھ حصوں والی چیز۔
القَمِيَّةُ : گھوڑے کے پاؤں کے پچھلے حصے کے
 بال **ج** **قَمِينٌ**۔
القَمِيَّةُ و **القَمِيَّةُ** : مرد کا وہ حصہ جو عورت
 کے پستان کا ہے۔ **ج** **قَمَادٌ**۔
القَمِيَّةُ : بچہ رہانے والوں کی پھری۔
قَمِيٌّ (ض) **قَمِيًّا**۔ **الشَّيْءُ** : موڑنا۔ لیٹنا۔ بعض کو
 بعض پر تر کر دینا۔ **قَمِيًّا**۔ **قَمِيًّا**۔ **قَمِيًّا**۔
 حاجت سے باز رکھنا۔ دوسرا ہونا۔ تم کہتے ہو ”**هَذَا**
وَاجِدٌ **فَأَنْتِهِ**“ یہ ایک ہے تم دوسرے بن جاؤ گا
 جاتا ہے ”**قَمِيٌّ** **عَلَيْهِ** **بِضْرِيَّةٍ** **قَمِينِيَّةٌ**“ اس نے اس
 کو دوبارہ مارا۔ ”**وَقَمِيٌّ** **لَا** **يَنْفِي** **وَلَا** **يَنْفَلُ**“ یعنی
 فلاں طے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ”**وَقَمِيٌّ** **صَدْرَةٌ**“
 یعنی اس نے اپنے دل میں دشمنی کو پوشیدہ کیا۔

الْفُوجُ: مٹی چوہہ اٹھانے کی ٹوکری۔
فَاخْت (ن ض) فُوجًا وَفَيْعًا: الْأَصْبَحُ لِي
الزُّورِمْ وَأَوَّلُ الْجُلِّ لِي الْوَحْلِ: اُنْجَلِي كَادِرِمِمْ بِمَا
بِرْ كَابْجِرِمْ بِمِمْ وَحِمْ۔

فَاز (ن) فُوزًا وَفُوزًا وَأَنَا وَفُوزًا: جوش میں
آنا۔ بجزگنا۔ اور اسی سے ہے "فَازَتِ الْفَيْتَةُ
بِئْتَهُمْ" ان کے درمیان فتنہ و فساد بزمک اٹھا۔

الْمُضَارُّ أَوْ الدُّخَانُ: بلند ہونا
الْحِزَابُ: ٹڈیوں کا ظاہر ہونا _____ نَفْسُهُ:
جی کا حملانا _____ الیہ وہ: حملہ کرنا۔ کود پڑنا۔
فَاوْرَةٌ مَفَاوِرٌ وَفُوزًا: ایک دوسرے پر حملہ
کرنا۔

فُوزَةٌ وَأَفَاةٌ وَاسْتِفَاةٌ: جوش دلانا۔ فُوزٌ
الْأَفْرُ: کھود کرید کرنا۔ فُوزٌ الْكِتَابُ: محللی میں
بجٹ کرنا۔

فُوزٌ: جوش میں آنا۔
فُوزَانُ: الشَّفَقُ وَفُوزَةٌ: شفق کی سرخی۔
الْفُوزُ: تھل۔ آسمان کے ایک برج کا نام ج
نہران و الفُوزِ وَبِشَارِ وَبِشَارِ وَفُوزَةٌ: الفُوزُ: بجز
کا بڑا کھوجا ج الفُوزِ وَفُوزَةٌ: الفُوزُ: ناخن کی جڑ
کی سفیدی۔

الْفُوزَةُ: گائے۔ کثرت۔ کہا جاتا ہے "ثورة
رجال اور صالحی": لوگوں کی یا رکت کی کثرت۔
جوش دیکھنا۔ بھگت۔

الْمَخَابِرُ: کہا جاتا ہے "فَازَ فَاوْرَةٌ فَالْمَخَابِرُ"
یعنی وہ غیبی تاک ہوا۔ "وَازِئْتُهُ فَاوْرَةُ الْوَأَسِ" میں
نے اس کو پر آئندہ مال دیکھا۔
الْمَخَابِرَةُ: شور۔ جج۔ ج نواری۔
الْمَخَابِرَةُ: بہت بیلوں والی زمین۔
فَاعُ (ن) فُوعًا: المَاءُ: بہنا۔

فَوَلَّتْ (س) فَوَلًا وَفَالَتْ (ن) فَوَلًا: الشَّاءُ
مَخَاصِي: دعوائی ہونا _____ الرَّجُلُ: بیوقوف
ہونا۔ صفت (أَقْوَل) مَوْنَتُ فَوَلًا: ج فَوَلٌ جج
أَنَاوَلَةٌ۔

فَوَلُّوا: المَعْلُ: اٹکھا ہونا _____ علیہ
الْقَوْمِ: بڑا اٹکنے اور مارنے پینے لگانا۔
إِنْفَالٌ الْفِجَالُ: عَلَيْهِ الثَّرَابُ: گرنا۔ کہا جاتا
ہے "إِنْفَالٌ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ" لوگ

إِنْفَانٌ: مَوْنَتُ فِنَانٍ وَفِنَانٌ: دو۔

الْإِنْفَانُ وَفِيَوْمِ الْإِنْفَانِ: بھرکان۔ سوموار۔

الْفَانِي: مَوْنَتُ الْعَالِيَةِ: دو سرا۔

الْفَانِيَّةُ: سیکڑ۔ ج الفَوَانِي۔

الْفَتْوَى وَالْفَتَا: مِنَ الْجَزْوَرِ: ذبح کیے ہوئے
جانور کا سر پھاڑاں مستثنیٰ کیا ہوا۔

الْمَشْفَى: بربط ماجہ کے پہلے تار کے بعد والا تار

"مَشْفَى الْوَادِي: وادی کا موڑ۔ ج العَفَاة۔

المشائي: قرآن کی آیتیں۔ مَشَائِي الشَّيْنِ: کسی
چیز کی لڑی وغیرہ۔ وَ الْمَشَائِي مِنَ الْمَدَائِي: زانو اور
کھنیاں۔

الْمَشْفَاةُ: اُون اور بال وغیرہ کی رشتی۔ کچی لپیٹ
ج مَشَائِيَّة۔

فَاب (ن) فُوبًا وَفُوبًا: لوثنا _____ النَّاسُ:

اٹکھا ہونا _____ المَاءُ: عوخ میں جج ہونا)

فُوبًا وَأَفُوبٌ الْفُوبَانِ: المَغْرِيضُ: چنگا ہونا۔

فُوبَةٌ: مِنْ كَذَا: بدلہ دینا _____ الرَّجُلُ:

جانے کے بعد واپس ہونا۔ (_____ وَفُوبَةٌ):

المُضَلِّي: فرض کے بعد لٹل نماز پڑھنا۔

أَفَابَ إِفَابَةً الرَّجُلُ: چنگا ہونا _____ الرَّجُلُ:

بدلہ دینا _____ هِجَاءَهُ: دینا۔

الْحَوْضُ: بجزگنا۔

فَقُوبٌ: ثوب حاصل کرنا۔

إِسْتَفَابَ: المَالُ: لوٹانا _____ الرَّجُلُ:

بدلہ مانگنا۔

الْقَائِبُ: قا۔ بارش سے پہلے کی تیز ہوا _____

مِنَ النَّحْوِ: سمندر کا بڑھتا ہوا پانی بھاننا کے بعد۔

الْقُوبُ: کپڑا ج حجاب و اَنْوَابُ وَأَنْوَابُ: کہا

جاتا ہے "طابُّهُ أَوْ ذَنَسُ الْقِيَابُ" پاک لٹس یا

خبیث اللٹس۔

الْقُوبُ وَالْمَقُوبَةُ وَالْمَقُوبَةُ: افعال کا بدلہ۔

خبر ہوا شرم عموماً خبر کے لیے مستعمل ہے۔

الْقُوبُ: شمد۔ شمد کی مٹھی۔

الْقُوبُ: بیزاز۔ کپڑے کا سودا گر۔ کپڑے والا۔

الْقِيَابِيُّ: کپڑوں کا محافظ۔

المقَاب والمقَابَة: جج ہونے کی جگہ۔

"مَقَابُ الْبُيُوتِ وَمَقَابُهَا" کونوں کے ارد گرد کے

اوغے پتھر۔

لَقِيَ الشَّيْ تَقْبِيَةً: دوہرا کرنا _____
بِالْأَمْرِ: ایک کام کے ساتھ دوسرا کام ملانا۔
الْكَلِمَةُ: تشبیہ کی علامت لگانا۔ ایک حرف پر دو
نقٹے لگانا۔

أَقْبَى: الرَّجُلُ: دو سرا ہونا _____ عَلَيْهِ:
تعریف کرنا _____ عَلَيْهِ بِالضَّرْبِ: دو بارہ
بارنا۔

تَقَانًا عَلَيْهِ: بھر پائیاں ظاہر کرنا۔

إِسْتَفَى: الشَّيْ: حکم عام سابق سے لگانا
_____ فَلَانًا وَعَلَى فَلَانٍ: کسی کو غیر کے حکم
سے خارج کرنا۔

إِسْتَوَى: صدمہ عَلَى الْبَعْضَاءِ: بغض و
عداوت پر مشتمل رہنا۔

الْبِنَى: مِنَ الْقُوبِ: بیج۔ لپیٹ۔ تم کہتے ہو

"أَزْسَلْتُهُ بِنَى كِتَابِي" میں نے اس کو اپنے خط

میں لٹوف کر کے بھیجا _____ مِنَ الْوَادِي:

موڑ _____ مِنَ اللَّيْلِ: وقت _____ مِنَ

الْحَيَاةِ: کنڈلی ج اَنْشَاءُ: اَنْشَاءُ الْكَلَامِ: دوران

ممتکرو۔ تم کہتے ہو "جَاؤُوا فِي اَنْشَاءِ الْاَمْرِ" یعنی

وہ لوگ کام کے درمیان میں آئے۔

الْبِنَى: دوہرائی ہوئی بات۔ ج ثَبِيَّةُ) _____

وَالْفَتْيَانُ: سردار سے دوسرے درجہ کا آدمی۔

الْقِيَابُ: تعریف۔ ج اَنْبِيَّةُ۔

الْبِنَاءُ: اونٹ کے زانو باندھنے کی دوہری رشتی۔

أَفَا (تَنَاءٌ وَمَشَى): وہ لوگ دو دو آئے (غیر

مصرف ہے اور مذکر و مؤنث کے لیے یکساں

ہے)۔

الْبِنَى: ج بِنَاءٌ وَفَتْيَانٌ: وہ جانور جس کے

سامنے کے دانت گر گئے ہوں۔

الْقَبِيَّةُ: سامنے کے اوپر کے نیچے کے دو دو

دانت۔ ج تَقَابًا اسْتِثْنَاءً: کہا جاتا ہے "خَلَفَ

يَمِينًا لَيْسَ فِيهَا ثَبِيَّةٌ" اس نے بغیر اثناء کے

قسم کھائی۔ گھلنی کا راستہ۔ کہا جاتا ہے۔ "فَلَانٌ

طَلَّعَ النَّبَاةَ" یعنی فلاں مشقتوں کا برداشت


کرنے والا ہے۔

تَقْبِيَةُ الْأَشْيَاءِ: موسیٰ ﷺ کی کتابوں میں

ہے پانچویں کتاب۔

الْقَائِي مِنَ الْأَقَابِ: دو حرفوں والا۔

<p>عورت۔ (فد کرد مؤنث) دونوں کے لیے یکساں ہے۔ تم کہتے ہو ”رجل ثیب“ شادی شدہ مرد ”امراة ثیب“ شوہر سے جدا شدہ عورت ثیب: جو عورتوں کے لیے ہے اس کی جمع ثیبات ہے اور کہا جاتا ہے ”بنو ثیب“ کنواں جس میں پانی جمع ہو۔</p>	<p>الواہ فی المکان: ٹھہرانا۔ قیام کرانا۔ تَفَوَّاه: مسان بنا۔ الفؤاة: گھر کا سامان راستے کے نشان کے پتہ۔ ج۔ ثوی۔ الفؤاة والفؤاة: اونٹوں کا بازہ۔ الفؤوی: مسان۔ مسان خانہ قیدی۔ ج۔ الفؤویا مؤنث فؤیة۔ الفؤیة: بھیڑ بکری گائے اونٹ کا بازہ۔ عورت۔ کہا جاتا ہے ”ہذیہ فؤیة فلان“ یہ فلاں کی بیوی ہے۔</p>	<p>اس پر ہر طرح سے ٹوٹ پڑے _____ عَلَیْہِ الفؤوی: زبان پر خود بخود آجانا۔ الفؤول: حمد کی کھیموں کا جھنڈ۔ الفؤویلة: قبیلہ کے جمع ہونے کی جگہ۔ متفرق گھروں کے لوگوں کا ہتھا۔ کہا جاتا ہے ”انہی فؤویلة من الناس“ لوگوں کی جماعت آئی۔ الفؤوم: بسن۔ الفؤومة: ایک بسن۔ تھوار کے دست کے کنارے کی آرائش۔ تم کہتے ہو ”سنیہی فؤومہ من فیضة“ میری تھوار کے دست کا کنارہ چاندی کا ہے۔</p>
<p>المشکب: خاندان سے جدا شدہ عورت۔ الفینیل: پہاڑی بکری۔ نامرد۔ عورتوں کے پاس بیٹھنے والا۔ فینیل و تینیل۔ الزجل: غسل مندی کے بعد بیوقوف بنا۔</p>	<p>مؤنث فؤیة۔ الفؤیة: بھیڑ بکری گائے اونٹ کا بازہ۔ عورت۔ کہا جاتا ہے ”ہذیہ فؤیة فلان“ یہ فلاں کی بیوی ہے۔ الفؤیة: پتہ جو راستہ میں نصب کر دیا جائے تاکہ چرداے کے لیے علامت رہے جبکہ وہ رات میں داپس ہو۔</p>	<p>تَفَاوَن: گھر فریب کرنا۔ الفؤوی: آنے میں لگانے کی خشکی۔ ہلیتھن۔ فؤوی (ض) فؤاة و فؤویا۔ المکان و لہ و بہ: اقامت کرنا _____ الزجل: مرنا۔ فؤوی: دفن کیا جاتا۔ فؤاہ تفویة فی المکان: ٹھہرانا۔ قیام کرانا۔ الفؤوی: اقامت کرنا۔ فؤاہ: مسان کرنا۔</p>
<p>الفینیل و الفینیل: ایک قسم کی گرہ دار بناہات جو زمین پر پھیلتی ہے۔ الفینین: موتی نکالنے کی جگہ موتی میں سوراخ کرنے والا۔ موتی میں سوراخ کرنے کا آلہ (البینة) بکریوں کا بازہ۔</p>	<p>المفؤوی: خزل۔ ج۔ مفاو۔ ابو المفاوی: مسان۔ ابو مفاوہ: میزبان۔ ام مفاوہ: میزبان کی بیوی۔ تفکبیت و ثیبیت۔ المزاة زوجہا: موت یا طلاق کی وجہ سے شوہر سے جدا ہونا۔ صفت (ثیب) و الثیب: باکرہ کی ضد۔ شادی شدہ مرد یا</p>	<p>تَفَاوَن: گھر فریب کرنا۔ الفؤوی: آنے میں لگانے کی خشکی۔ ہلیتھن۔ فؤوی (ض) فؤاة و فؤویا۔ المکان و لہ و بہ: اقامت کرنا _____ الزجل: مرنا۔ فؤوی: دفن کیا جاتا۔ فؤاہ تفویة فی المکان: ٹھہرانا۔ قیام کرانا۔ الفؤوی: اقامت کرنا۔ فؤاہ: مسان کرنا۔</p>



الجَبِّ: گہرا کنواں۔ کچا کنواں۔ گڑھا۔ ج
آجباب و جباب و جبتہ۔

الجُبَّةُ: جبہ۔ زرہ۔ من السنان: چمڑکا
بلائی حصہ جس میں تیرہ پیوست ہو۔ آگھ کے گرد
کی ہڈی۔ پنڈلی کی ہڈی کا زیریں حصہ جو سم سے
متصل ہو۔ ج جَبَب و جباب۔

الجباب والجباب: قمل۔
بعوض (آجَب): کوہان کٹاہواوٹ۔

جَبًا (ف) جَبًا و جَبًا و جَبُوًا و جَبُوَةً:
البصر: نگاہ کا زور ہونا۔ السنف: اچھٹ
جانا۔ الرجل: خوف کی وجہ سے باز رہنا اور
دایس آنا۔ صفت (جَبًا و جَبًا): بمعنی بزدل
جَبَاتٌ علیہ العیة: درواغ سے لکل کر گھبرا
رہنا۔ جَبًا علی القوم: اہماک نمودار ہونا۔

جَبِين (س) جَبِيًا: بچھٹنا۔ عنہ: باز رہنا اور
ڈرنا۔

أَجْبًا: الشئ: چھٹانا۔ أجبأت الارض:
سرخ سانپ کی پھتری والی ہونا۔ أجبًا علی
القوم: بلند جگہ سے اہماک نمودار ہونا۔

الجَبِّ: سرخ رنگ کی سانپ کی پھتری ج
أجْبُوًا و جَبَاةً: گہرو: ہاڑ کا گڑھا جس میں
بارش کھائی ہو۔ عیلة۔

ارض (مَجْبَاةً): بکھرت سرخ رنگ کی سانپ
کی پھتری والی زمین۔

جَبَبَ الرجل: سخر کرنا۔ موٹا ہونا۔
الجَبْبِيَّةُ: چب سے کا قیلا۔ ذہول۔ موٹی

اوٹنی۔ ج جب حب۔
ماء: جَبَب و جَبَب: بست پانی۔

الجبت: بیٹ۔ جاو۔ جاو۔ گرے برکت۔
جَبَبَ (ف) جَبَبًا: نکیر کرنا۔ جمع القِداح

جَاش (ف) جَاشًا: قلبہ: غم یا گھبراہٹ سے
مضطرب ہونا۔ الہ: متوجہ ہونا۔

الجَاش: قلب۔ سید۔ کہا جاتا ہے "زابط
الجَاش" یعنی بہادر۔ ج جَاش و جَاش۔
الجَاشِيَّةُ: لیس۔

جَاش (ف) جَاشًا: الماء: چیتا۔
جَاشًا (ف) جَاشًا و جَاشًا: تَجَبُّفًا: بچھاڑنا۔
گھبراہٹ میں ڈرنا۔ جَاش الشجرة: جڑ
سے اکھیرنا۔

إِن جَاشَتِ الشجرة: جڑ سے اکھڑنا۔

جَبَل (س) جَبَلًا: لنگڑا ہونا۔
جَبَل (ف) جَبَلًا: الصوف: اکٹھا کرنا۔
الصوف: اکٹھا ہونا۔

جَبَلًا و جَبَالَةً: بچو (یہ دونوں ظم اور غیر
مصرف ہیں)۔

جَبَالَةُ العُجُز: ہیپ۔ زخم کا مواد۔
العجورس: باجرہ۔

جَبِي (ف) جَبِيًا و جَبِيًا: الفرس: سرخ
یا ہی ماکل ہونا۔ صفت (أَجْوًا): مونت جاقواہ
جَبِي (ف) جَبِيًا: الشئ: روکنا۔ چھپانا۔
الشوب: بیٹا۔ علیہ: واختر سے کاٹنا۔

جَبِيَّة (ن) جَبِيًا: کاٹنا۔ غالب ہونا (۔
جَبِيًا): النخلة: گھاہاریا۔

جَبِيَّة: الفرس: زانو اور اڑی تک سفیدی کا
بچھٹنا۔ صفت (مَجَبِيَّة): تمز چھٹانا۔

جَبِيَّةٌ مَجَبِيَّةٌ و جَبِيًا: غالب آنا۔ فخر میں
مقابلہ کرنا۔

تَجَبَّب: الرجلان: ایک دوسرے کی پس
سے شادی کرنا۔

إجْتَبَب: جب پھٹنا۔ الشئ: کاٹنا۔

جَبَاب (ف) جَبَابًا: مال کمانا۔ گہرو مٹی بچھنا۔
الجَبَاب: گہرو مٹی۔ سخت اور اچھڑ آوی۔ شیر۔
ج جَبَاب۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ جَبَابٌ الصبر"
فلان امور میں بڑا صابر ہے۔ الجَبَاب:
موٹا گور خر۔

جَبَابَةُ البطن: ناف۔
جَبَابٌ جَبَابَةٌ: بھانگا۔
جَبِيَّة (س) جَبَانًا: الرجل: اٹھنے یا بوجھ
اٹھانے میں سست ہونا۔

جَبِيَّةٌ جَبَانًا و جَبُونًا: گھبرانا۔ صفت
(مَجَبُونٌ)

أَجْبَانَةُ الجف: گہرا کرنا۔
الجَبَانُ: بد خو۔ سست رفتار۔

جَبَج (ف) جَبَجًا: بزدلی سے کھڑا ہونا۔
جَبَجًا جَبَجًا: بالابل: جی جی کہہ کر پانی
پلانے کے لیے بلانا۔

تَجَبَجًا: عن کذا: روکنا۔ باز رہنا۔
الجَبَجُ جَبَجًا: من الطائر: پرند کا سینہ۔ من

السفينة: جہاز کا گلا حصہ۔ ج جَبَجِي:
جَبَدًا (ف) جَبَدًا: بستہ لگا کر لینا۔

العَجَابَةُ منه

جَار (ف) جَارًا و جَارًا: إلى الله: دعا کرنے
میں آواز بلند کرنا۔ گڑ گڑانا۔ الفور: ڈکارنا

النبات: بلند ہونا۔ الارض: لمبی گھاس
والی ہونا۔

الجَارُ: من _____ من النسب: لمبی اور
ترو تازہ نباتات (۔) والعَجِير والعَجَار) موٹا

مرو من الغنم: بست بارش۔
جَبِيَّة (س) جَبَاًا: الماء: اچھو لگنا۔ چھند لگنا۔
الجَارُ: اچھو۔ طلق کا چھند۔

وَجَبْنٌ وَأَجْبِنَةٌ. الْجَبِينُ: بزدل (مذکر و مؤنث)
 الْجَبَانُ: بھیرے بچے والا یا بھیرے والا۔ بہت بزدل۔
 مؤنث جَبَانَةٌ () وَالْجَبَانَةُ: بے درخت کے بلند و ہموار زمین۔ قبرستان۔ صحرا جَبَابِین
 الْمُجْبِنَةُ: باعث بزدلی۔ بھیرے جانے کی جگہ یا وہ جگہ جہاں بھیرے ہو۔ عوام کی زبان میں بکری کے بچے کی اوجھ کو کہتے ہیں جو دودھ کو بھیر دیا کرتا ہے۔
 جَبِيَّةٌ (ف) جَبِيَّهَا: الرجل: پیشانی پر مارنا۔ اچانک آنا۔ حاجت سے باز رکھنا۔ جیبہہ بالمکروہ: برائی سے پیش آنا۔ الشَّاءُ القوم: اسباب سرما تیار کرنے سے پہلے سرما کا آنا۔ الرجل: بھیرے تڑول وغیرہ کے بانی پر آنا۔ جَبِيَّهٌ: سرنگوں کروانا۔ اجْتَبَيْتِ: الماء: وغیرہ: پانی وغیرہ کو ناگوار سمجھنا۔ الجَبِيَّةُ: پیشانی کی چوڑائی اور خوبصورتی۔ الجَبِيَّةُ: پیشانی۔ ج۔ جہاہ و جَبِيَّات۔ جَبِيَّهٌ القوم: سردار قوم۔ جیبہہ من الناس: لوگوں کی جماعت۔ زلت۔ تم کہتے ہو "لقبت بنبہ جَبِيَّهٌ" مجھے اس سے زلت حاصل ہوئی۔ الجَبِيَّهُ: گھوڑے۔ اس کے لیے واحد نہیں۔ اور اسی سے ہے "لمس فی الجبہہ صدقہ" یعنی گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں۔ الْأَجْبِيَّةُ: خوبصورت پیشانی والا۔ شیر۔ مؤنث جَبِيَّهَاء۔ الجَبِيَّهَلُ: ابداً اکھڑا دی۔ جَبَا (ن) جَبَا وَجَبَا وَجَبِيَّا وَجَبِيَّوَةٌ وَجَبَاوَةٌ وَجَبَاوَةٌ وَجَبِيَّ (ض) جَبَايَةٌ۔ الحراج: جمع کرنا۔ الماء فی الحوض: جمع کرنا۔ جَبِيَّ قَبِيَّهٌ: سجدہ کے وقت ہاتھوں کو گھٹنے یا زمین پر رکھنا۔ أَجْبِنِي: زرغہ: پکنے سے پہلے بچنا۔ اور اسی سے ہے "من أجبنی فقد أذنبی" جس نے پکنے سے پہلے (بھینس) کو بچا اس نے رو کا معاملہ کیا۔ اجْتَبَيْتِ: ہ۔ پسند کرنا۔ چن لینا۔

الْمَجْبَاءُ: جِ اجْبَاءُ (وَالْمَجَابِيَّةُ): جِ جَوَابُ: اونٹوں کے پانی پینے کا حوض۔ الجَبَا: کتوں کی من۔
 العجَابِي: قا۔ مڈی۔
 الْمُجْبِنِي: خراج۔ نکس۔
 جَبِيَّةٌ (ن) جَبَاوَةٌ اجْتَبَيْتِ: جز سے اکھیرنا۔
 الْجَبْتُ وَالْجَبْتُ: مردہ مڈی۔ یا شد کی مردہ مکی۔ کجور کا نلاف۔ شد میں طاہر اشد کی مکیوں کا پودہ وغیرہ۔ الْجَبْتُ: موم۔
 الْجَبِيَّةُ: جسم انسانی لاش۔ جِ جَبْتِ۔
 الْجَبِيَّةُ: من النخل: کجور کا پودہ۔ واحد (جوشیہ)
 الْمُجْبَقَةُ وَالْمَجْبَقَاتُ: کھری۔ گھاس کھونے کا اوزار۔
 اجْتَبَانُ الطَّبِي: پر جھاڑنا۔ الثَبْتُ: لہا اور پیچیدہ ہونا۔
 جَبَلْفَةُ (ض) جَبَلْفًا: الرِيحُ: اڑا لے جانا۔ پھیر دینا۔
 جَبَلٌ (س) وَجَبَلٌ (ك) جَبَالَةٌ وَجَبُولَةٌ: الشجر والشجر: گنجان دکالا ہونا۔ صفت (جَبَلٌ وَجَبِيلٌ)
 الْجَبَلَةُ: جوتئی۔ جِ جَبَلٌ۔
 الْجَبَالُ: جندول۔
 الْجَبَالَةُ: بکھرے ہوئے پتے۔
 الْجَبَلِيَّةُ وَالْجَبَالِيَّةُ: لاث پادری۔ جِ جَبَالِقَةٌ (جید)
 جَبَمٌ (ن) ض) جَبَمًا وَجَبْمًا: اللَّيْلُ: آدمی رات ہونا۔ الرجل او الطائر والحيوان: سینہ کو زمین سے لگانا۔ صفت (جالیم) جِ جَبْمٌ۔
 الْجَبَالُومُ وَالْمَجْبَامُ: کابوس۔
 رَجُلٌ جَبْمَةٌ وَجَبَامَةٌ وَجَبْمٌ وَجَبْمٌ: بہت بیٹھنے والا یا بہت سونے والا۔
 الْجَبْمَةُ: ٹیلہ۔ پست۔
 الْجَبْمَةُ: راگھ وغیرہ کا تودہ۔
 الْجَبْمَانُ: بدن۔ مضمض۔
 الْمُجْبَمُ: بیٹھنے کی جگہ۔ جِ مَجْبَمٌ۔
 الْمُجْبَمَةُ: وہ پرندہ یا خرگوش جس کو باندھ کر

تیرد وغیرہ مارا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔
 جَبَا (ن) جَبَاوَةٌ وَجَبِيَّ (ض) جَبِيَّيًّا وَجَبِيَّيًّا: زانو پر بیٹھنا یا انگلیوں کے بل کھڑا ہونا۔ صفت (جباب) جِ جَبِيَّيٌّ وَجَبِيَّيٌّ: مؤنث جَابِيَّةٌ۔
 جَبَانِي: ہ۔ گھٹنے سے گھٹانا کر بیٹھنا۔
 أَجْبِنِي: ہ۔ زانو کے بل بیٹھنا۔
 تَجَبَانًا: ہاؤم زانو پر بیٹھنا۔
 الْجَبْفَةُ وَالْمَجْفُوقَةُ وَالْجَبْفُوقَةُ: بچوں کا میز مٹی کا میز۔ قبرج جَبْفِيٌّ وَجَبْفِيٌّ: شط۔
 جَبْفُوقَةُ الرَّجُلِ: بدن۔
 جَبْحَجَجٌ: الشَّقِيُّ: پورا جائزے کے اقدام کرنا۔
 عن الامر: ہٹ جانا۔ رک جانا۔
 الْجَبْحَجَجُ وَالْمَجْحَجَجُ: بھائی کی طرف بہت کرنے والا سردار۔ جِ جَبْحَجَجٌ وَجَبْحَجَجٌ وَجَبْحَجَجَةٌ۔
 جَبْحَدَةٌ (ف) جَبْحَدًا وَجَبْحُوْدًا: کفر کرنا۔
 جَبْحَلَانًا: ہ۔ حَقَّه وَجَبْحَدٌ بِحَقِيْقِهِ: بارخود علم کے انکار کرنا۔ صفت (ججاجد)۔
 جَبْحَدٌ (س) جَبْحَدًا: الشَّقِيُّ: کم ہونا۔ الثَبْتُ: چھوڑنا۔ جَبَانًا: الارض: خشک ہونا۔ الرجل: بے خبر ہونا۔ صفت (جبحد) وَجَبْحَدٌ وَجَبْحَدٌ: کہا جاتا ہے "عامٌ جَبْحَدٌ" کم بارش والا سال۔ "ارض جَبْحَدَةٌ" خشک زمین۔ (لام الجحود) عند النحاة: لام جو مانا ہے اور کان کے بعد تاکید نفی کے لیے آئے جیسے "وما كَانَ رَبِّكَ لِتَهْلِكَ الْقَرْيَةُ" خدا کا یہ کام نہیں ہے کہ بہتوں کو ہلاک کرے۔
 الْجَبْحَدَبُ: پست قدم۔
 جَبْحَدْرَةٌ: چھاڑنا۔ لامکانا۔
 تَجَبْحَدْرٌ: الطائر: پر قول کر اڑنا۔
 الْجَبْحَدْرُ: پست قدم۔
 جَبْحَدْلَةٌ: چھاڑنا۔ الاناء: بھرنا۔
 المال: جمع کرنا۔
 تَجَبْحَدْلٌ: لومکانا۔
 جَبْحَدْمٌ: جَبْحَدْمَةٌ: تیز دوڑنا۔
 جَبْحَزٌ (ف) جَبْحَزًا وَتَجْبَحَزُ وَالْمَجْبَحَزُ: العُطْبُ او السَّبْعُ: سوراخ میں داخل ہونا۔

<p>الجَحِيحَلُ: بڑی چٹان۔ پہاڑ۔ ہریڑی چیز۔ جَحَمَ (ف) جَحْمًا: الناز۔ بھڑکانا۔ العَيْنُ: کھولنا۔ عن الامر: روکنا۔ جَحَمَتِ (س) جَحْمًا وَجَحْمًا وَجَحَمَتِ (ک) جَحْمًا: الناز۔ بھڑکانا۔ جَحْمَةٌ: بعینہ۔ گھورتا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔ أَجْحَمَ: عن الامر: رکنا۔ باز رہنا۔ أَجْحَمَتِ النازُ: تیز بھڑکانا۔ فَجَحَمَ: بھگ ہونا۔ چلنا۔ الجاحِمُ: نا۔ بھڑکتی ہوئی چنگاری۔ من الحرب: سخت اور گھسان کی جنگ۔ اور کہا جاتا ہے "نازٌ جاحِمَةٌ" تیز آگ۔ "عَيْنٌ جاحِمَةٌ" اٹھی کی اٹھی رہ جانے والی آگ۔ الجَحِيمُ: دوڑ۔ گڑھے میں سخت بھڑکتی ہوئی آگ۔ سخت گرم جگہ۔ جَحْمَةُ النارِ: آگ کی بھڑک۔ جَحْمُ الجَحَامِ: آنکھوں کی سوجن۔ الأَجْحَمُ: بہت سرخ آنکھوں والا۔ سوتی ہوئی آنکھوں والا۔ مَوْنُثُ جَحْمَاءَ: جَحْمُ وَجَحْمُ: جَحْمِي۔ الجَحَامُ: بخیل۔ الجَحْمُوشُ: بہت بوڑھی عورت۔ بد صورت مونا خرگوش۔ جَحْمُ جَحْمِيرٍ: جَحْمِيرٍ الجَحْمُوشُ وَجَحْمُوشُ: بہت بوڑھی عورت۔ الجَحْمِظَةُ: گوارہ میں پتے کے اوپر لپٹنے کا کپڑا۔ زخ کرنے کے وقت جانور کی ناکوں میں باندھنے کی رسی۔ جَحِينُ (س) جَحِينًا: الصبيُّ: خوراک کی خرابی سے گزور ہونا۔ صفت (جحن) جَحِينُ (ف) جَحِينًا وَجَحِينُ: فقرا بخل کی وجہ سے اہل و عیال پر بھلی ڈالنا۔ أَجْحَنَةُ: بھری خوراک دینا۔ الجَحِينُ: دیر میں جوان ہونے والا۔ من النہات: کمزور اور چھوٹا پودہ۔ الجَحِينُ وَالجَحِينَةُ: بچھڑی۔ جَحَا (ن) جَحْوًا: چلنا۔ بالمکان:</p>	<p>العَيْنِ: اُکھری ہوئی آنکھ والا مرد۔ جَحْظًا: الیہ۔ گھورتا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔ الجَحِظَتَانِ: دونوں آنکھوں کے ڈھیلے۔ جَحْظَةً (ف) جَحْظًا: چھیلنا۔ ہمالے جانا۔ زیاد کردنا۔ ہر جگہ: لات مارنا۔ جَحْظَ مَعَهُ وَلَهُ عَلَي غَيْرِهِ: ناکل ہونا۔ لہ الطغَامُ: کہا نا کھانا۔ جَحِيفٌ: الرجلُ: جلاسے بیضہ ہونا۔ أَجْحَفُ: السَّيْلُ: ہمالے جانا۔ الدهرُ بالناس: ہلاک کرنا۔ جز سے مٹانا۔ فَلَاحٌ بِقَبْلِهِ: طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف دینا إِجْحَافٌ: الاستعمال بطور استعارہ کے نقص فاحش میں بھی ہوتا ہے۔ جَاحِفَةٌ: مزاحمت کرنا۔ جاحف عنه: رافت کرنا۔ لَجَاحِفًا: بلائیں اور تلواروں سے لڑنا۔ بالحِوَرَةِ: بلے سے باہم دو گریڈ چھیننا۔ إِجْحَافُهُ: چھیننا۔ جز سے اُکھیلنا۔ ہلاک کرنا مَاءُ البئرِ: تمام پانی نکال دینا۔ السَّيْلُ الواديُّ: کھود کر ہمالے جانا۔ الجَحْفَةُ وَالجَحْفَةُ: حوض کے اطراف میں پانی کا تپہ۔ السَّيْلُ وَالموتِ (الجَحْفِ): ہمہ گیر دہا کن۔ الجَحْفِ: بیضہ کے اسال۔ المَجْحُوفُ: جلاسے بیضہ۔ الجَحْفِ: جگہ۔ لڑائی۔ المَجْحُوفَةُ: مصیبت۔ جَحْفَلَةٌ جَحْفَلَةٌ: پچھاڑنا۔ پھینکانا۔ سرزنش کرنا۔ فَجَحْفَلُوا: جمع ہونا۔ الجَحْفَلُ: بڑا لنگر۔ جَحْفَالِي: رجل جَحْفَلٌ: بڑے مرتبہ کا مرد۔ الجَحْفَلَةُ: کھردار جانور کا ہونٹ۔ جَحْفَلَةٌ (ف) جَحْفَلًا وَجَحْفَلَةً: پچھاڑنا۔ الجَحْفَلُ: جَحْفَلِي وَجَحْفَلَانُ: گروٹ۔ گروہ کا پتہ۔ گھریلا۔ شد کی کمیوں کی ملکہ۔ ج جَحْفَالُ: بڑی ٹھگ۔ اور کہا جاتا ہے "رجل جَحْفَلٌ" مونا کشادہ پیشانی والا مرد۔ الجَحْفَالُ: ذہر۔</p>	<p>جَحْوَتِ العَيْنِ: اندر کو دھس جانا۔ تم کہتے ہو۔ "جَحْوَتِ العَيْنِ عَنَّا" غیر ہم تک نہ پہنچی۔ أَجْحَرُ وَجَحْوَتِ السَّبْعِ: سورخ میں داخل ہونے پر مجبور کرنا۔ وَأَجْحَرَتِ السَّمَاءُ: بارش نہ ہونا۔ أَجْحَرَتِ القَوْمُ: قحط و سختی میں پڑنا ہ: بھلی ڈالنا۔ ہالی کڈنا: مجبور کرنا۔ أَجْحَرُ: سورخ بنانا۔ فَجَحْوَتِ: العَيْنِ: اندر کو دھسنا۔ اور اسی سے ہے عین (جَحْوَاهُ) گڑھے میں دھسی ہوئی آگ۔ الجَحْوَرُ: گہرا گڑھا۔ الجَحْوَرُ قَوْلُ الجَحْوَرَةِ: شکستہ سال۔ الجَحْوَرُ: سورخ۔ بل۔ جَحْوَرًا وَجَحْوَرَةً وَالجَحْوَرَةُ: الجَحْوَرُ: پیچھے رہ جانے والا جو قافلہ کو نہ پاسکے۔ الجَحْوَجِرُ: وہ جانور جو اپنے ریز سے پیچھے رہ جائیں۔ المَجْحَرُ: چھیننے کی جگہ، جائے پناہ۔ ج مَجْحَرٍ۔ الجَحْوَرُطُ: بوڑھی عورت۔ وَجَحْلٌ (جَحْوَمٌ): بھگ خود بد خلق مرد۔ الجَحْوَرُطُ: بوڑھی عورت۔ جَحْسٌ وَجَحْسٌ (ف) جَحْسًا وَجَحْسًا: الجَحْلُ: چھیلنا۔ کھیننا۔ جَاحِسٌ وَجَاحِسٌ: عن نفسه وعن غیره: رافقت کرنا۔ ہ: مزاحم ہونا۔ متاقلہ کرنا۔ الجَحْسُ: گدھے کا پتہ۔ تَشَبُّهًا كَهْوَسِ کے بچے کو بھی کہتے ہیں۔ جَحْسٌ جَاحِسٌ وَجَحْسَانٌ وَجَحْسَةٌ: الجَحْسَةُ: گدھے کا مادہ پتہ۔ ادن جو ہاتھ پر لپٹ کر کالی جالے۔ الجَحْمُوشُ: بھونٹا پتہ۔ المَجْحُوشُ: وہ شخص جس کا آدھا بدن ماؤف ہو گیا ہو۔ جَحْمِظَتِ (س) جَحْمُظًا: عینہ: اُکھرے ڈھیلے والی ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ رجل (جَحْمِظَةٌ)</p>
--	--	--

الجَدَّاءَةُ الجَدَّاءُ كالمؤنث۔ سُرَّكٌ كادرميان۔
ج جَوَادٌ۔

الجَدَّادُ والجَدَّادُ: كجور توتڑا۔

جَدَّادَةٌ: النخل وغيره: كجور وغيره كالثبوا
ورخت۔

الجَدَّادُ: الجهاد والجداد والجداد
شئ۔

الجَدِيدُ: ثيابا۔ كجديد۔ ج جَدْدٌ۔

الجَدِيدُ: كالجديد: نصيب۔ ور۔ كالثبوا۔

الجَدِيدَانُ وَالْأَجْدَانُ: دن رات تشبہ
مستعمل ہے۔ صرف دن یا رات کو جدید یا آجد
نہیں کہتے۔

الجَدِيدُ: غم۔ مِنَ الْأَكْسَبِيَّةِ: حلقف
دھاریوں والا۔

جَدَّبَ (ان ض) جَدَّبًا وَجَدَّبَ (ك)
جَدُّوْبَةً وَجَدَّبَ: المكان: بارش نہ ہونے
کی وجہ سے خشک ہونا۔ صفت (جَدَّبَ)

وَأَجْدَبَ وَجَدَّبِثَ وَجَدُّوْبٌ وَجَدُّوْبٌ
جَدَّبَ فُلَانًا: عیب لگانا۔

أَجْدَبَ: المكان: بارش نہ ہونے سے
خشک ہونا۔ القوم: قحط زدہ ہونا۔

الأرض: خشک پانا۔ فُلَانًا: ممان داری نہ
پانا۔

جَدَّبَهُ: کزور کرنا۔
تَجَدَّبَ: عیب دار ہونا۔

الجَدَّبُ: سم: خشک سالی۔ عیب۔ کما جاتا ہے
"مكان جَدَّب" قحط زدہ مقام۔ مؤنث جَدَّبَةٌ ج

جَدُّوْبٌ۔ کما جاتا ہے "أَرْضُونَ جَدُّوْبٌ
وَأَرْضُونَ جَدَّبٌ" قحط زدہ زمینیں۔

الجَدُّوْبُ: كالجديد: قحط زدہ۔ أَرْضٌ
(جَدَّبَاءٌ) قحط زدہ زمین۔

المَجْدَابُ: من الأراضى: عجز زمین۔ ج
مَجْدَابٌ۔

الأَجْدَابُ: وہ زمینیں جس میں پیداوار نہ ہو۔
مكان (مَجْدَابٌ) قحط زدہ۔

الجَدَثُ: قبر۔ ج أَجْدَاثٌ وَأَجْدَثٌ۔
الجَدَثَةُ: گھوڑے کے کھری آواز۔ گوشت

چبانے کی آواز۔

جَدَّدَ وَأَجَدَّ: الشئ: ثيابا۔ كجديد: ثيابا
پیشنا۔ أَجَدَّ الأمر: اچھی طرح تحقیق کرنا۔

في الأمر: شجیدگی اختیار کرنا۔ كوشش کرنا۔ أَجَدَّ
الطریق: سخت دہموار ہونا۔ الرجل: سخت

دہموار زمین پر چلنا۔
جَدَّاءَةٌ مُجَدَّاءَةٌ: ثيابا۔ کسی سے تحقیق کرنا۔

اسْتَجَدَّ الشئ: ثيابا ہونا۔ الشئ: ثيابا کرنا
ثيابا۔ العوب: ثيابا۔

تَجَدَّدَ: ثيابا ہونا۔
الجَدُّ: سم: دادا۔ ثابا۔ ج أَجْدَادٌ وَجَدُّوْدٌ

وَجَدُّوْبَةٌ۔ مؤنث جَدَّةٌ۔ ج جَدَّاتٌ۔ الجَدُّ:
نصیب۔ بزرگی۔ عظمت۔ روزی۔ سہرا کاتارہ۔ کما جاتا

ہے "عَنْ جَدَّةٍ أَوْ تَبِعَتْ جَدَّةً" وہ نقصان میں رہا
یادہ ہلاک ہوا۔

الجَدُّ: سم: كوشش۔ شجیدگی۔ جلدی۔ اچھی
طرح ثابت شدہ۔ و "فُلَانٌ عَالِمٌ جَدُّ عَالِمٍ":

فُلَانٌ اتَّمَا فِي رَجْعِ كَالعالم ہے۔ و "عَظِيمٌ جَدًّا":
بہت ہی بڑا۔ جَدًّا: كاصب مصدرت کی وجہ سے

ہے۔
الجَدُّ: حقد۔ کما جاتا ہے "فُلَانٌ ذُو جَدِّ لِي
كذَا" فُلَانٌ اس بارے میں خوش نصیب ہے۔

بہت پانی والا کنواں۔ کم پانی والا کنواں۔ چیل
میدان کے اطراف میں تھوڑا پانی۔ سمندر کاتارہ۔

ہر چیز کاتارہ (والجَدِّي) بڑے حقد والا۔ بہت
نصیب والا۔

الجَدَّدُ: دہموار سخت زمین۔ اسی سے مش ہے
"مَنْ سَلَكَ الجَدَّ مِنَ العِثَارِ" جو دہموار سخت

زمین پر چلنا ہے وہ لغزش سے محفوظ رہتا ہے۔
باریک ریت۔ ج أَجْدَادٌ۔

الجَدَّةُ: دریا کاتارہ۔ کتے کے گلے کا پٹکا۔ کپڑے
کا ٹکڑا۔ جَدَّةُ القَوْبِ: کپڑے کا ثيابا ہونا۔

الجَدَّةُ: علامت۔ طریقہ۔ کما جاتا ہے "رُكِبَ
جَدَّةُ الأُمُرِ أَوْ جَدَّةُ مِنَ الأُمُرِ" اس نے رائے

قائم کی۔ ج جَدَّدٌ۔
ناقة (جَدَّاءٌ) خشک قطن والی اونٹنی۔ سنہ

جَدَّاءٌ: قحط کاسال۔
الجَدَّاءُ: كوشش کرنے والا۔ سرگرمی سے کام

کرنے والا۔ شجیدگی سے کام کرنے والا۔

اِقَامَتْ كَرَبًا۔
إِجْتَمَعَا: جڑے اکٹھا۔

الجَحْوَةُ: ایک قدم۔
جَحَّ (ض) جَحَّجًا: ہاتھ پیر چھوڑ کر لٹنا۔ ایک

جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ برجلہ:
خاک اڑانا۔

أَبُو جَحَّوْةٍ: بُذِي۔
جَحَّوْرٌ (ف) جَحَّوْرًا: البئر: کشار۔ کرنا۔

جَحَّوْرٌ (س) جَحَّوْرًا: جوف البئر: کشارہ
ہونا۔

أَجَحَّوْرٌ وَجَحَّوْرٌ: البئر: کشارہ کرنا۔
تَجَحَّوْرٌ: الحوض: پانی کے خشک ہو جانے

کے بعد مٹی کا پھٹ جانا۔
الجَحَّوْرُ: بہت کھانے والا۔ بزدل۔

جَحَّوْفٌ (ان ض) وَجَحَّوْفٌ (س) جَحَّوْفًا
جَحَّوْفًا: اپنی حد سے زیادہ فخر کرنا۔ صفت

(جَحَّوْفًا)
الجَحَّوْفِيُّ: سم: ہماری فکر۔ بہت مغرور

انسان کے پیٹ کی آواز۔ نفس دروغ۔ تم کہتے ہو
"وقع ذلك في جحيفي" میرے دل میں یہ

واقع ہوا۔
جَحَّوْحًا (ان) جَحَّوْحًا: الكوز: سرگوں کرنا۔

اُونڈھا کرنا۔
جَحَّوْحِيٌّ وَجَحَّوْحِيٌّ: الكوز: سرگوں ہونا۔

اونڈھا ہونا۔ الشبخ: خمیہ کر ہونا۔
جَحَّوْحِيٌّ الليل: گذر جانا۔

جَدَّ (ض) جَدًّا: في اعين القوم: عالی مرتبہ
ہونا۔

جَدَّ (ض) جَدَّةً: الثوب: ثيابا ہونا۔ (جَدًّا)
الشئ: کانا (ض ان) جَدًّا) كوشش کرنا۔

في الأمر: تحقیق کرنا۔ اہتمام کرنا۔ جلدی کرنا
بہ الامر: سخت ہونا۔

جَدَّ (س) جَدَّدًا: اللدئ والضرغ: خشک
ہونا۔ صفت (أَجَدَّ) اور ناکہ صفت (جَدَّاءٌ)

ہے۔ اور کما جاتا ہے "سَنَّةٌ جَدَّاءٌ" قحط کاسال۔
جَدَّ (س) جَدَّدًا وَجَدَّدًا: البصير والا ہونا۔ صفت

(مَجْدُوْبٌ) کما جاتا ہے "جَدُّوْبٌ يَا فُلَانٌ" تم
خوش قسمت ہو۔

<p>کائٹے کی جگہ۔ جدع ہر وزن قطام: سخت سال۔ کہا جاتا ہے ”وَأَجْحَفْتُ بِهِمْ جَدْعًا“ ان کو قحط کے سال نے زیادہ کر دیا۔ المجدع: عضو کائٹے کا اوزار۔ الجدع: موت۔ جدف (ض) جدوفا۔ الطیض: کٹے ہوئے پروں سے اڑنا۔ الطیض: چھوٹے قدم سے چلنا۔ الرجل: تیز چلنے میں ہاتھوں کو ہلانا۔ جدف (ض) جدفا۔ الشقی: کائٹا۔ الملاح السفینة: چبڑ سے چلانا۔ السماء بالطلع: برف گرانا۔ جدف: نعمت کی ناشکری کرنا۔ کہا جاتا ہے ”لَا تَجِدُ فَوَائِئِمْ اللَّهِ“ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو۔ الملاح: چبڑ سے ڈوگی چلانا۔ علی اللہ: کفر اور اہانت آمیز باتیں کرنا۔ جدف: علیہ: جھگی میں جٹلا کیا جانا۔ اور اسی سے ہے ”وانه لَمَجْدَفٌ عَلَيْهِ الْعَيْشُ“ وہ تھک دست ہے۔ أجدف: القوم: چلانا۔ شور مچانا۔ الجدفة: شور و شغب۔ رجل (مجدوف) الید: چھوٹے ہاتھ والا۔ کٹے ہوئے ہاتھ والا۔ ”مجدوف الأزار والقمیص“ چھوٹا تہنہ اور چھوٹی قمیص پہننے والا۔ المجداف: چبڑ۔ مجدافا الطیض: پرندہ کے دونوں بازو۔ ججدافیف المجدیف: کلہ کفر۔ ججدافیف۔ الجدافی والجدافاء: قیمت۔ الجدف: قبر۔ ججداف۔ جدل (نض) جدلا۔ الحیل: ہٹا۔ جدل (س) جدلا۔ الرجل: سخت جھگڑا ہوتا۔ () جدل (ن) جدلا۔ الحب: خوش میں سخت ہوتا۔ الولد: مضبوط اور سخت ہڈیوں والا ہوتا۔ جدلة (ض) جدلا و جدلة: زمین پر پھک</p>	<p>نباتات جذور۔ واحد (جدرة و جدرة) الجدری والجدری: جھپک۔ المجدار: دھوکا (یعنی وہ چیز جو جانوروں اور چڑیوں کو ہنگانے کے لیے کھیت میں کھڑی کی جاتی ہے۔ المجدرة: لائق۔ کہا جاتا ہے ”انہ مجدرة لان يفعل كذا“ وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔ (مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے یکساں ہے) ارض مجدرة: بہت چھپک والی سرزمین۔ المجدور: جھپک زدہ۔ کم گوشت والا۔ اور کہا جاتا ہے ”انہ مجدور ان يفعل كذا“ وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔ الجدایش والجداسة: غیر آباد زمین۔ غیر مزرودہ زمین۔ الجداس: جنگ خون۔ جدشة (ض) جدشا: لینے کا ارادہ کرنا۔ الجدش: سخت زمین۔ ججداش۔ جدع (ف) جدعا۔ الانف وما شاكله: کائٹا۔ کہا جاتا ہے ”لا امر ماجدع قصير أنفه“ کسی خاص مصلحت سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی۔ جدع فلانا: بید کرنا۔ باز رکھنا۔ الرجل عیالہ: نان نفقہ روک لینا۔ () جدع و أجدع: الولد: بڑی خوراک دینا۔ جدوع (س) جدعا: بری خوراک والا ہونا۔ صفت (جدوع)۔ الرجل: کان ناک کا کٹ جانا۔ صفت (أجدع) مؤنث جدع الج جدع۔ جدعة: کسی سے ”جدعالك“ کہنا یعنی اللہ تجھ کو عیب وار کر دے اور تجھ سے خیر کو منتقل کر دے۔ جداعة مجداعة وجداعا: گلی دینا۔ جھگڑا کرنا۔ جداعا: باہم جھگڑنا۔ باہم گلی گلوچ کرنا۔ اسی سے عرب کا قول ہے ”تَرَكَتُ الْبِلَادَ تَجْدَاعًا أَفَاعِيْنَهَا“ میں نے ملک کو اس حال میں چھوڑا کہ وہاں کے اشرار ایک دوسرے کو کھائے جا رہے تھے۔ الجدعة: کائٹے کے بعد عضو کا بقیہ حصہ۔</p>	<p>اجتذت: قبر ہانا۔ المجدجذ: سخت ہموار زمین۔ جھپک۔ بڑی کی مانند ایک سیاہ رنگ کا کپڑا جو رات میں آواز کرتا ہے۔ ججداجذ۔ جدح (ف) جدحا واجدح واجتدح۔ السويقي: گھولنا۔ جدح السويقي في اللبن: ملانا۔ کتے ہیں ”جدح جؤنن من سويق غيره“ (دوسرے کے ستوک جؤنن نے گھولا) طوای کی دوکان اور داداجی کی فاتحہ کے طور پر ضرب الثل ہے۔ جدحة: ملانا۔ المجدح: ستو وغیرہ گھولنے کا سامان۔ ایک ستارہ کا نام۔ المجدح: سمندر کا کنارہ۔ ججدحاح۔ مجداح: السماء: جھنجر۔ واحد۔ مجدح: کہا جاتا ہے ”أَزْسَلَتْ السَّمَاءُ مَجْدَاحِ الغَيْثِ“ آسمان نے بارش کے لیے جھنجر کو آزاد چھوڑ دیا۔ جدز (ن) جدزا و جدزو و جدوز: جھپک لگانا۔ صفت (مجدز و مجدز) جدزه (ن) جدزا: لائق و مناسب بنانا۔ الجداز: دیواروں سے گھیرنا۔ الرجل: دیوار کی اوت میں ہو جانا۔ جدز و جدز (ک) ن) جدارة و أجدز۔ النبت: کو تیل لگانا۔ جدز (ک) جدارة۔ بکذا: لائق ہونا۔ صفت (جدیر) کہا جاتا ہے ”هو جدیر بكذا ولكذا“ ج جدیرون و جدزاه۔ مؤنث جدیرة۔ ج۔ جدیرات و جدیر۔ جدز و اجتذز: الخابط: دیوار بنا نا اور باہر کرنا۔ الجدرو المجدر: پھریں مار کا نشان۔ زخم کا نشان۔ الجدور: بالسنی ولہ: لائق۔ مناسب ج جدیرون۔ الجدز: ججدزان و (الجدان) ججدز و جدز: دیوار۔ الجدز والجدز: ایک قسم کی ریگستانی</p>
---	--	--

”ثُرْتُ إِلَى الضَّمِّ فَكَسَّرْتَهُ أَحَدًا“ میں
بت پر لوث پڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے
کر دیئے۔
الجُدَّة: کلزا۔
الْجُدُّ: ٹوٹا ہوا۔ مَوْتُ جُدَاءِ۔
جُدْبَةٌ (ض) جُدْبًا وَاجْتَدَبَتْهُ. الہ: کھینچنا۔
جُدَبَ الشَّهْرُ: اکثر حصہ گذر جانا۔ جُدَبَتْ
النَّاقَةُ: کم دودھ والی ہونا۔ _____ الہر عن
امہ: دودھ چھڑانا۔
جَادَبَتْهُ الشَّيْءُ: کسی چیز کے ہارے میں کھٹکش
کرنا۔
وَجَادَبْنَا الشَّيْءَ: کسی چیز کے ہارے میں ہاتھ
کھٹکش کرنا۔
تَجَدَّبَ اللَّيْنُ: بچنا۔
إِنْجَذَبَ: بھینچ جانا۔ اِنْجَذَبَ فِي السَّبْرِ: تیز
چلنا یا دور تک جانا اور کہا جاتا ہے ”اِنْجَذَبَ بِسْمِ
السَّبْرِ“ وہ لوگ دور تک چلے۔
الْجَادِبُ: قا۔ کم دودھ والی اونٹنی۔ ج
جوادب و جُدَاب۔
الْجُدْبَةُ: دور کی مسافت۔ کہا جاتا ہے ”بہنہ
وین المنزل جلدیہ“ اس کے اور منزل کے
درمیان مسافت بعید ہے۔
جُدَاب: موت کے لیے علم۔
الْجَادِبِيَّةُ: کھینچنے کی قوت۔
الْجُدَابِيَّةُ: جھولی چڑیوں کے ڈکار کرنے کا کہا۔
جُدْرَةٌ (ن) جُدْرًا: کانا۔ جڑ سے اُکھیرنا۔
جُدْرَ العَدَدُ: عدد کا جڑ حاصل کرنا۔
جُدْرَةٌ وَاجْدْرَةٌ: جڑ سے اُکھیرنا۔
الجُدْرُ: جڑ سے اُکھیرنا۔
الجُدْرُ وَالْجُدْرُ: جڑ۔ جُدْرُ النَّبَاتِ:
نبات کی جڑیں جو زمین میں پھیلی ہوئی ہوں۔ ج
جُدْرُ: مریخ کا جڑ۔ جُدْرُ البَقْرَةِ: گائے
کے سینک۔
الْجُدْرِيَّةُ: وہ دانت جو راجحہ کے بعد ہو۔
الْمَجْدُورُ: عدد کا مریخ۔
الْجُدْرُ وَالْجُدْرُ وَالْجُدْرُ: نیل گائے کا
پچھڑ۔ جوادب و جُدَاب۔
الْمَجْدُرُ: بست پست قد۔

أَجْدَى إِجْدَاءً: عطیہ پانا۔ فَلَائًا: عطیہ دینا
_____ الامْرُ: نفع دینا۔ کہتے ہیں۔ ”مايُجْدِي
عَنكَ هَذَا“ تم کو یہ فائدہ نہیں دے گا۔
إِجْدَاءُ: عطیہ دینا۔
الْجُدَا: عام بارش (_____ وَالْجُدَاءُ)
نفع عطیہ۔
الْجَادِي: مانگنے والا۔ عطیہ دینے والا۔
الْجَادِي: زعفران۔
الْجُدْوِي: عطیہ۔
الْأَجْدِي: زیادہ نافع۔
الْجُدِي: سخی۔
الْجُدْوَةُ: گلہ۔ ریوڑ۔
جُدْيٌ (ض) جُدْيًا: عطیہ طلب کرنا۔
أَجْدَى إِجْدَاءً: العَجْرُ: برتا۔
الْجُدِي: پہلے سال کا بکری کا پچھڑ۔ ج أَجْدُ
وَجُدَاءُ وَجُدْيَانُ: قصب کے پہلو کے ایک
ستارے کا نام جس کو ”جُدْيُ الفُرْقَد“ بھی کہتے
ہیں آسمان کے ایک برج کا نام۔
الْجُدْيَةُ: زمین یا پالان کے نیچے کی گدی ج
جُدِي وَجُدِيَاتُ۔
الْجُدَايَةُ وَالْجُدَايَةُ: ہرن کا پچھڑ۔
الْجَادِيَاءُ: زعفران۔
الْمَجْدَاءُ: عدد کا مریخ جسے نو (۹) تین (۳) کا۔
سولہ (۶) چار (۴) کا۔
جُدْرَةٌ (ن) جُدْرًا: کانا۔ توڑنا۔ جُدْفِي سَبْرِهِ: تیز
چلنا۔
جُدْدُ: قوم سے اپنی بیوی چاہتا اور اس کا
نہ ماننا۔
الْجُدُّ: کٹنا۔ ٹوٹنا۔
تَجُدَّدُ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
الْمَجْدَادُ وَالْمَجْدَادُ وَالْمَجْدَادُ: کلزا۔
سوئے کے ٹکڑے۔
الْمَجْدَادَةُ: ہر چیز کی زیادتی۔ کہا جاتا ہے
”جُدَادُهُ عَلَيْهِ كَدًّا“ وہ اس سے اتنا زیادہ۔
الْمَجْدَادَاتُ: ریزہ۔ براہ۔ کہا جاتا ہے ”عندِي
جُدَادَاتٌ مِنَ البَقْرَةِ“ میرے پاس چاندی کے
ریزے ہیں۔
الْمَجْدُ: کسی ہوئی چیز کا چھوٹا ٹکڑا۔ تم کہتے ہو

دینا۔ جُدْلُ الشَّعْرِ: کونہ ہٹا۔ چرٹی بنانا۔
جَادَلُهُ مُجَادَلَةً جَدَالًا: جھگڑا کرنا۔
تَجَادَلًا: ایک دوسرے سے جھگڑنا۔
تَجَدَّلُ وَالْمَجْدَلُ: زمین پر ٹپکانا۔
الْمَجْدَلُ: مہ: تخت۔ ٹھوس۔ عضو۔ ج
جُدُولُ: قبر۔
الْمَجْدَلُ: جھگڑا۔ جھگڑنے کی مہارت۔
الْمَجْدَلَةُ: ہاون کا رستہ۔
الْمَجْدَالَةُ: زمین۔ جَدَالَةُ الخَلْقِ: کھٹھے
ہوئے برن والا۔
الْمَجْدِيلُ: مٹی ہوئی رسی۔ ج جُدْلُ۔ جُدْلُ
الانسان: انسان کے ہاتھ بیروں کی
جوفدار بڑی۔
الْمَجْدِيلَةُ: طریقہ۔ کہا جاتا ہے ”عملي على
جَدِيلِيَّة“ اس نے اپنے طریقہ پر کام کیا۔ نیلہ۔
گوشہ۔ کنارہ۔ رائے کی کھینچ۔ کبوتر وغیرہ کا کابک۔
الْأَجْدَلِي وَالْأَجْدَلُ شَمْرًا: ساعدہ اجدل۔
خوبصورت کھنٹی ہوئی کلائی۔ ج أَجْدَلُ۔ دَرَجَةُ
جُدْلَاءُ: مضبوط زہر۔ ج جُدْلُ۔
الْمَجْدَالُ وَالْمَجْدِيلُ وَالْمَجْدَلُ
وَالْمَجْدَالُ: بست۔ جھگڑالو۔ الْمَجْدَالُ: کابک
پینچنے والا۔
الْمَجْدَلُ: محل۔ ج مَجْدَلُ
الْمَجْدَلُ: لوگوں کی جماعت۔
الْمَجْدُولُ: بنا ہوا یا مضبوط بنا ہوا۔
الْمَجْدُولُ وَالْمَجْدُولُ: نالہ۔
جُدْمَةٌ (ن) جُدْمًا: کانا۔ جُدْمَتِ النَّخْلَةِ:
پھلدار ہو کر ٹٹک ہونا۔ صفت (جَادِم)
الْمَجْدَمُ: کٹ جانا۔
الْمَجْدَمَةُ: پست قد۔
_____ وَالْمَجْدَمَةُ: وہ ہالیاں جو پہلی مرتبہ
گاہنے میں نہ ٹوٹیں۔
الْمَجْدَمُ: پست طبقہ کے لوگ۔
أَجْدَنُ إِجْدَانًا: فقیری کے بعد مالدار ہونا۔
الْمَجْدَنُ: خوش آوازی۔
جَدَا (ن) جَدْوًا: عطیہ دینا۔
وَاجْتَدَى إِسْتَجْدَى: فلائًا: حاجت کا
سوال کرنا۔ عطیہ مانگنا۔

تَجَادَى تَجَادَى: جبک جانا۔
 الجذی والجدیة من الشجرة: جڑ۔
 جَزْءٌ (ن) جَزْءٌ وَجْزْءٌ: کھینچنا۔ جَزْءُ الْاِبْلِ: آہستہ آہستہ۔ الکلمة: زیر لگانا۔ علی نفسه جَزْءٌ: گناہ کا ارتکاب کرنا۔
 جَزْءٌ وَجَزْءٌ: تخی سے کھینچنا۔
 جَزْءٌ وَرَسْمٌ: بالکل آزاد چھوڑ دینا۔ مال منول کرنا۔ کہا جاتا ہے "جَزْءُ الدَّيْنِ" اس نے قرض ادا کرنے میں مال منول کی۔
 اِنْجَزَ: کھینچنا۔
 جَزَوُ اجْتَزَ البعيرُ: بنگالی کرنا۔
 اَجَزَ: البعيرُ: بنگالی کرنا۔
 الفَصِيلُ: دودھ پینے سے روکنے کے لیے زبان چیر دینا۔
 لسانه: گفتگو کرنے سے منع کرنا۔ اَجَزَ: رَسْمٌ: بالکل آزاد چھوڑ دینا۔ اجزءه الرمح: نیزہ کھساکر چھوڑ دینا۔ اَجَزَ الدَّيْنُ: سہلت دینا۔
 اجْتَزَ واجْتَزَ الشئُ: کھینچنا۔
 اجْتَزَ الشئُ: کھینچنا۔
 الصائلُ: تموڑا۔
 تموڑا لینا۔
 الفلانُ: مطبخ و فرما بھرا ہونا۔
 الجَزْءُ: اور اس سے ہے "کان ذلک عام کذا و جلد جَزْءٌ الی الیوم" یہ واقعہ فلاں سال میں ہوا اور آج تک ایسا ہی ہے۔ جَزْءُ الخبیل: دامن کوہ۔ بجود غیرہ کا سوراخ۔ اعراب کی ایک قسم خواہ حرکت سے بوا حرف سے۔
 الجَزْءُ: کھینچنے کی بیسٹ۔ خانہ بدوش لوگ۔
 والجَزْءُ: بنگالی۔
 الجَزْءُ: جَزْءٌ کاسم مرة۔ گھڑا۔ جَزْءٌ جَوَار: الجَزْءُ: بھوبھل کی بیٹی ہوئی روٹی۔
 الجَزْءُ: گدہ ہونے کے لیے سوراخ دار برتن۔ ہرن کے شکار کے لیے کھڑی کا پھنداج۔ جَزْءٌ: کہا جاتا ہے۔ فعلت۔ ذلک من (جَزْءِک) وجزائک وجزائک) میں نے یہ تمہاری وجہ سے کیا۔
 الجَزْءُ: ایک قسم کی مچھلی جس کو ہام کہتے ہیں۔
 الجَزْءُ والجَزْءُ: پرندے کا پورا۔
 الجَزْءُ: بیانی بیسے کی جگہ۔ سیلاب کا بیٹا ہوا۔
 ناله۔ فی اصطلاح المولدين:

میں تجربہ کار و واقف کار ہوں۔ اور کہا جاتا ہے "هو جذبٌ مالٍ" وہ مال کا بہتر متعلم ہے۔ ج۔ جِدَالٌ وَاَجْدَلٌ وَاَجْدَلٌ وَاَجْدَلٌ: الجَدَالُ: نا۔ شادمان۔ ستون کی مانند ایک جگہ پر کھڑا رہنے والا۔ "سقاء جَدَالٌ": دودھ کو بد مزہ کر دینے والی مٹک۔
 جَدَمٌ (ض) جَدَمًا وَاَجْدَمَةٌ: جلدی سے کاٹنا۔
 جَدَمٌ جَدَمًا: کٹے ہوئے ہاتھ یا کئی ہوئی انگلیوں والا ہونا۔
 جَدَمٌ: کوڑھی ہونا۔ صفت (اَجْدَمٌ وَاَجْدَمٌ وَاَجْدَمٌ)۔
 اَجْدَمٌ: عن الشئِ: باز رہنا۔ علیہ: بخت ارادہ کرنا۔ فی سیرہ: تیز چلنا۔ یدہ: کاٹنا۔
 اِنْجَدَمَ وَاَجْدَمَ: کٹ جانا۔
 الجَدَمُ وَاَجْدَمٌ: اصل۔ ج۔ جَدَمٌ وَاَجْدَمٌ۔
 الجَدَمَةُ وَاَجْدَمَةٌ: ہاتھ میں کٹنے کی جگہ۔
 الجَدَمَةُ: کھڑا۔ چابک۔ کوڑا۔
 الجَدَمَةُ: بٹھاپا۔
 اَلْاَجْدَمُ: جھکنا۔ یا کئی ہوئی انگلیوں والا۔
 مؤنث جَدَمی وَاَجْدَمَاءٌ اور کہا جاتا ہے "هو اَجْدَمٌ الحجة" وہ شخص ایسا ہے جس کے پاس نہ دلیل ہے نہ ذریعہ بیان۔
 الجَدَمَةُ: کئی ہوئی کھینچ کا باقی ماندہ۔
 المَجْدَمُ وَاَجْدَمَةٌ: امور میں جلدی فیصلہ کرنے والا۔ جلدی سے دوستی کو ختم کر دینے والا۔
 جَدَا (ن) جَدَوًا وَاَجْدَوًا: علی الشئِ: اچھی طرح کھڑا ہونا۔
 تَجَادَى: الحججر: اٹھانا۔
 الجَدَاةُ: بڑے درختوں کی جڑیں۔ ج۔ جَدَاءٌ الجَدَوَةُ وَاَجْدَوَةُ وَاَجْدَوَةُ: بھڑکتا ہوا انگارہ۔ ج۔ جلدی و جلدی و جَدَاءٌ کہا جاتا ہے "فلان جَدَوَةٌ شر" فلاں شر کا باقی اور اسے ہوا دینے والا ہے۔
 جَدَى (ض) جَدَاً وَاَجْدَى: فلانا عنه: منع کرنا۔

جَدَعٌ (ف) جَدَعًا الدابةُ: بغیر چارہ کے روک رکھنا۔ ابن البعيرین: ایک رستی میں بانہرنا۔
 الجَدَعُ: من البهائم: چھوٹا بچہ۔ ج۔ جَدَاعٌ وَاَجْدَعَانٌ اور اسی سے ہے "جَدَعَانٌ البجالی" چھوٹے پہاڑ۔ نوجوان۔ اور کہا جاتا ہے "فَلَا تَفِي هَذَا الاْمْرُ جَدَعٌ" فلاں اس معاملہ میں نوا موز ہے۔
 "وَأَعْدَتُ الاْمْرَ جَدَعًا" میں نے اس کام کو از سر نو کیا۔ کہا جاتا ہے۔ "ذهبوا (جَدَعٌ وَاَجْدَعٌ) جَدَعٌ" جتنی برف تھ بے نیں متفرق کئے۔
 الجَدَعُ: درخت کا تنہ۔ ج۔ جَدُوْعٌ وَاَجْدَاعٌ: جَدَعٌ الْاِنْسَانُ: دھڑ۔ سر اور ہاتھوں اور ٹانگوں کے علاوہ انسان کا باقی جسم۔
 الشَّجَدُ وَاَجْدَعٌ: بے اصل و بے ثبوت۔
 جَدَفٌ (ض) جَدَفًا وَاَجْدَفٌ: الطائرُ: تیز اڑنا۔ "جَدَفَتْ وَاَجْدَفَتْ المَرأةُ": چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔
 جَدَفٌ وَاَجْدَفٌ: القارِبُ: چپو سے چلانا۔ الشئِ: کاٹنا۔
 تَجَدَفٌ: فی مشیہ: تیز چلنا۔
 المَجْدَفُ: بستی چلانے کا چپو۔
 المَجْدَفُ: کئی ہوئی ٹانگ والا۔
 جَدَلٌ (س) جَدَلًا وَاَجْدَلٌ: خوش ہونا۔ صفت (جَدَلٌ وَاَجْدَلٌ) ج۔ جَدَلَانٌ مؤنث جَدَلَةٌ وَاَجْدَلَةٌ۔
 جَدَلٌ (ن) جَدُولًا وَاَجْدَلٌ: سیدھا کھڑا ہونا۔
 اَجْدَلَةٌ: خوش کرنا۔
 تَجَادَلٌ: القومُ: ہام کینہ رکھنا۔ ہام وشمی کرنا۔
 الجَدَلُ: من الشجرة: بغیر شاخوں کے درخت کا تنہ۔ کھٹو۔ کہا جاتا ہے "عَادَ الشئُ الی جَدَلِهِ" چیز اپنی اصل پر لوٹ آئی۔ کھڑی کا کندہ جو خارش والے اونٹ کے بدن رگڑنے کے لیے کھڑا کیا جائے۔ جَدَلٌ اس کی تغیر ہے اور اسی سے ہے "الا جَدَلُهَا المَخْکَکُ"

<p>”جرح الشهادة“ اس نے کوئی کو باطل کر دیا — الرجل: کما۔ صفت (جرح) اور اسی سے ہے ”مأله جارحة“ اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں۔ جرح (س) جرحاً: زخمی ہونا۔ جرحاً: بہت زخمی کرنا۔ جرح الشهادة: رد کرنا۔ اجترح الشئ: کما۔ الاثم: ارتکاب کرنا۔ استجرح الشئ: فاسد ہونا۔ الجرح: زخم۔ جرحاً: جرحاً و اجرحاً: الجرح: جس چیز سے مخالف کی گواہی یا دلیل بحدوث کی جائے۔ الجرحا: زخم۔ جرحاً و جرحاً: جرح کا پیشہ۔ گناہ۔ الجرحا و الجرحا: زخموں کا علاج کرنے والا۔ سرجن۔ الجرحا: جارح کا مؤنث۔ چھری۔ شکاری درندہ یا پرندہ یا کتہ۔ علمو انسانی خصوصاً ہاتھ ج جرحاً: جوارح التہار: کتاپ ہے مصائب سے۔ اور اسی سے ہے ”نقوذ باللہ من طوارق اللیل و جوارح التہار“ ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ ”الجوارح من الظنیر“ شکاری پرندے۔ الجرحا: جرحاً و الجرحا و (الجرحا) ج جرحاً: زخمی۔ جرد (ن) جرداً و جرداً: العود: چھیلانا الجلد: بال آتارنا۔ السیف: نکل کرنا القحظ الارض: چھیل کرنا۔ جرداً من لوبہ و جرداً لوباً: نکالنا۔ جرداً لکتاباً: اعراب نہ لگانا۔ جرداً الجرداً: چھینک رہنا۔ جرداً (س) جرداً: چھیل ہونا۔ نکال ہونا المکان: بڑی زدہ ہونا۔ الفرس: چھوٹے بال والا ہونا۔ جردت الارض: بڑیوں کے کھانے سے صاف ہو جانا۔ جرداً: نکال ہونا۔ الامر: تمام کاموں سے فارغ ہو کر مشغول ہونا اور کوشش کرنا الفرس: گھوڑوں میں آگے بڑھ جانا۔</p>	<p>و جرد و جرد۔ الجرد: خالی مٹی۔ الجرد: سخت و قوی افراد (انسان ہو یا حیوان) کھاؤ اور نکلے اہل و عیال۔ الجرد: شائی ہو یا اس کی ٹھنڈک الجردان و الجردان: من السیف: میان پر تلہ۔ دھار۔ من القمیص: گریبان۔ الجرد: آزمودہ۔ دراہم معجربہ: کھرے دراہم۔ الجرد: پانناہ (فارسیہ) ج جرد و جرداً: جرد: پانناہ پانناہ۔ جرد: پانناہ پانناہ۔ الجرد: ایک قسم کی پھلی۔ مارماہی۔ جرد و اجرد: اوپر سے نیچے کرنا اور سکر کر زمین پر آ رہنا۔ اجرد: چٹ کے رہ جانا۔ الجرد و الجرد: من الشئ: جرد۔ یا درخت کی جڑ میں جمع شدہ مٹی۔ ج جرداً: جرد و النمل: چوٹیوں کی بستی۔ اور عصری زبان میں ”جریم“ (Germs) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جرح (س) جرحاً: الخاتم فی اصبعہ: ڈھیل ہونے سے حرکت کرنا۔ صفت (جرح) الرجل: سخت زمین میں چلنا۔ الجرح: سخت زمین۔ الجرحا: توشہ رکھنے کا تھیلا۔ خرمی۔ ج جرح۔ جرد: الجمل: بلبلانا۔ الماء فی حلقہ: گڑ گڑ کرنا۔ () و جرداً الماء: غٹ غٹ پینا۔ الجرد: غلہ کی دائیں کرنے کا آہنی آلہ۔ حلق۔ جرداً: الجرد و الجرد: لوبیا۔ چنا۔ الجردا: چلی۔ الجرد: ایک قسم کی ترکاری جو پانی میں پیدا ہوتی ہے۔ جرد (ف) جرداً: زخمی کرنا۔ ہ بلسانہ: عیب لگانا۔ مرتبہ لگانا۔ کما جاتا ہے</p>	<p>صندوہی ہو کھینچنے سے کھلے۔ جرد (جرد): گمراہیوں۔ فرس جرداً: قابو میں نہ آنے والا گھوڑا۔ امرأہ جرد: لٹی عورت۔ الجرد: گناہ۔ کما جاتا ہے ”فعلت ذلك من جبروتک“ میں نے اس کو تمہاری وجہ سے کیا۔ الجرد: بہت کھینچنے والا۔ گمراہانے والا۔ گمرا بیچنے والا۔ جیش جرد: بہت بڑا لشکر۔ عوام چھوٹی صندوہی کے لیے لفظ جرد کو استعمال کرتے ہیں جو کھینچنے سے کھلتی ہو۔ الجردا: زرد رنگ کا پھو جو دم کو گھسیٹتا چلے ہے۔ الجردان: انسان و جنات۔ الجرد: پانی بٹنے کی جگہ۔ شہیر۔ الجرد: ککشاں۔ عوام اس کو ”درب التبانہ“ کہتے ہیں۔ جرد (ک) جرداً و جرداً و جرداً: علیہ: دلبری کرنا۔ صفت (جرب) ج جرداً و اجرباً۔ جرداً و جرداً: جرات دلانا۔ دلیر بنانا۔ اجرباً: دلیر ہو جانا۔ اجرباً: تکلف جرات و کھانا۔ الجرد: درندوں کے شکار کرنے کا مکان۔ ج الجردا: الجرد: پونا۔ ملحق۔ جرب (س) جرباً: نارش والا ہونا۔ صفت (جرب و جردان و اجرب) ج جرباً و جرباً و اجرباً و جرباً: جرب السیف: زنگ آلود ہونا۔ جرباً و جرباً و جرباً: آزمانا۔ اجرب: قوم کے اونٹوں میں غارش پیلانا۔ کھلی میں جٹلا کرنا۔ الجرب: عیب۔ برائی۔ گمراہی۔ الجربا: ارب کا مؤنث۔ قط زدہ زمین۔ ستاروں بھرا آسمان۔ الجرب: گمراہ کا مہمان۔ چڑے کا برتن۔ کنوئیں کا جوف۔ غمیشین کی خلی۔ ج اجرباً</p>
--	---	--

آواز۔
والجروش والجروش والجروش۔ من
اللیل، رات کا ایک حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ "مضى
جروش من اللیل" رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ ج
أجروش وجروش۔
جروضة: الحب، دلاہواقلہ۔ سرکی بھوسی۔
الجوراش: جوراش۔ (دوا)
الجرویش والمجروش: دلاہوا۔
جروش (س) جروشہ برفیقہ: فکرا غم کی وجہ
سے مشکل سے شوک لگنا _____ رفقہ:
یکبارگی گل لینا۔ کہا جاتا ہے "فلان یجروش
علیک رفقہ غیظاً" یعنی فلاں تمہارے اوپر
دانت پیں رہا ہے۔
جروشہ (ن) جروشاً: گھا گھوٹنا۔ کہا جاتا ہے
"هو یجروش نفسه" وہ مرے والا ہے۔
أجروشہ برفیقہ: اچھو لگوانا۔
الجروش والجرویش: شوک جس سے
پھندا لگ جائے۔ اور اسی سے مثل ہے "حال
الجرویش ذون القریض" شکر کرنے سے شدید
غم نے روک دیا۔
الجرویش: غمگین۔ ج جروشی: اور کہا جاتا
ہے "فلت فلاں جروشاً" فلاں مرے ہی والا
ہے۔
الجروش والجرویش والجروش: بہت
غمگین۔
الجروشہ والجروشہ والجروشہ: بہت
کمانے والا۔ ناقہ (جروشہ وجروشہ) موٹی
تازی اونٹنی۔
جروش (ف) جروشاً وجروش (س) جروشاً
واجروش اجروشاً۔ الماء: یکبارگی پی لینا۔
جروشہ الماء: ایک ایک گھونٹ کر کے پانا۔
جروش الماء: تھوڑا تھوڑا پینا _____
العیظ: غصہ پی جانا۔
أجروشہ: الناقہ: کم درود والی ہونا۔ صفت
(مضارع) جروشاً وجروشاً (مضارع)
الجروشہ والجروشہ والجروشہ: گھونٹ۔
الجروشہ: ج جروش وجروش (والجروشہ)
ج جروشاً (والجروشہ) ج جروشاً: ہوا

رٹلا میداں جس میں کچھ نہ اگے۔
جروف (ن) جروشاً وجروشاً وجروشاً
واجروشاً: الشقی: کل یا اکثر حصہ کو لے جانا
_____ الطین: کھرج لے جانا۔
أجروف: المكان: سیلاب زدہ ہونا۔
الجروف: ہ۔ بہت مال (موٹی) چاندی سونا
دغیرہ۔ سرسبزی۔ دوداؤ جو اونٹ کی ران یا بدن پر
لگایا جاتا ہے۔
الجروف: ج جروشہ (والجروف) ج جروشاً:
دریا کے کنارے کا وہ حصہ جس کو پانی نے کھو کھا کر
دیا ہو۔ اور اسی سے ہے "فلان یتشی علی جروف
ہار لا یندری مالئین من نہار" فلاں دریا کے
گرتے ہوئے کنارے پر گھرتا ہے اور اسے پیل
دہناری تیز نہیں۔
الجروف: من السیل: تمام چیزوں کو بہا لے
جانے والا سیلاب۔ اور کہا جاتا ہے "رجل
جروف" تمام کھانا کھا جائے والا مرد۔
(_____ والجروف) ایک قسم کا پتہ۔
الجروف: فاطمون۔ عام تباہ کن موت (جائے
انسان کی ہویا موٹی کی)
الجروشوف: بہت کمانے والا۔ تیز بہا لے جانے
والا۔ محوس۔ مؤنث جروشوفہ۔
الجروشوف: بہت تیز بہا لے جانے والا۔
المجروشوف والمجروشوف: وہ شخص جس کا تمام
مال برباد ہو گیا ہو۔
المجروشوف والمجروشوف: بیلچہ۔ پھاڑہ۔
جروشہ: بچاڑنا _____ الشقی: بہت حرص
سے کھانا۔
الجروشوف والجروشوف: شیر۔
جروش (س) جروشاً: المكان: سخت اور پتھری
ہونا۔
الجروش: سخت اور پتھری زمین ج اجروش۔
الجروشوف: پتھری زمین۔ ج جروشوف۔
الجروشوف والجروشوف: شراب یا اس کا رنگ۔
جروش (ض) جروشاً: الشقی: کاٹنا۔ پورا کرنا
_____ الناقہ: اُون کڑنا (_____ جروشاً
وجروشاً وجروشاً) النخل: کھجوریں کاٹنا۔
جروش (ن) جروشاً واجروشاً: لاپلہ: کاٹنا۔

الْجَزْزُ: کترے یا کائے والا۔
 المَجْزُ: کترلی۔ قہجی۔
 جَزْأُ (ف) جَزْأَةُ الشَّيْءِ: اجزاء میں تقسیم
 کرنا۔ ایک جزء لیانا۔ (وَجَزْأُ وَاجْتَزَأُ)
 بِالشَّيْءِ: اکتفاء کرنا۔
 جَزْأُ لَجَزْأَةٍ وَتَجَزَيْتَا: الشَّيْءُ: تقسیم کرنا۔
 (جَزْأُ وَأَجْزَأُ) بِالشَّيْءِ: قائل بنانا۔ کہا جاتا ہے
 "جَزْأُ الْعَاشِيَةِ بِالرُّغْلِبِ عَنِ الْمَاءِ" جانور کو تر
 گھاس کھلائی اور پانی پلانے کی ضرورت نہیں
 ہوئی۔ أَجْزَأُ عَنْهُ: مستغنی ہونا۔
 تَجَزَأُ: تقسیم ہونا۔
 الْجَزْءُ: بعض۔ کفایت۔ کہا جاتا ہے لکھی
 هَذَا عِشَاءُ وَجَزْءُ تَمَارِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهَا۔
 الْجَزْءُ: چیز کا ایک حصہ۔ جِ اجزاء اور اسی
 معنی میں جَزْءُ و جَزْءٌ بھی ہے۔
 الْجَزْئِيُّ: جڑ کی جانب منسوب۔ کھلی کی ضد۔
 الْجَزْئِيَّةُ: ضد کھیت۔ جِ جِزئیات۔
 الْجَزْءُ: چھری۔ ستلی وغیرہ کا رستہ۔
 الْمُجْزَأُ وَالْمَجْزَأَةُ وَالْمَجْزَأُ وَالْمَجْزَأَةُ:
 کسی چیز کا اتنا حصہ جو کافی ہو۔ کہا جاتا ہے۔ "أَجْزَأُ
 مَجْزَأُ فُلَانٍ وَمَجْزَأُهُ وَمَجْزَأَانَهُ وَمَجْزَأَانَهُ"
 وہ فلاں کا تمام مقام ہوا۔
 الْجَزْئِيُّ وَالْمَجْزِيُّ: من الطعام: آسودہ
 کرنے والا۔
 الْجَوَازِيُّ: نسل گائے جو صرف گھاس چرتی
 ہے اور زیادہ پانی کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔
 جَزَعُ (ف) جَزَعًا لَهُ مِنَ الْمَالِ: حصہ دینا
 _____ الرَّجُلُ: اپنے کام کے لیے جانا
 _____ الطَّبِيَاءُ: اپنی بھارتی میں داخل ہونا۔
 الْجَزْحُ: مہ۔ عطیہ۔
 الْجَزْدَانُ: بزودان۔ رستہ۔ تھیلی۔
 جَزْرٌ (ن ض) جَزْرًا وَجَزْرًا وَجَزْرًا
 وَاجْتَزَرَ: ذبح کرنا۔ جَزْرُ التَّخْلَةِ
 جَزْرًا: کاٹنا۔
 جَزْرٌ (ن ض) جَزْرًا: البحرُ: سمندر کا پیچھے
 ہٹنا۔ _____ الْمَاءُ: خشک یا کم ہو جانا۔
 أَجْزَرَ: النخلُ: کاٹنے کا وقت آنا۔ الشَّيْخُ:
 مرے کا وقت آنا۔ _____ فَلَانًا: ذبح کرنے کے

لیے کھری دینا۔
 تَجَازَرَا: باہم گالی گلوچ کرنا۔
 تَجَزَّرُوا وَمِ اجْتَزَّرُوا هُمْ: طعی القتال: میدان
 جنگ میں دشمن کو درندوں کی خوراک بنا دینا۔
 الْجَزْرُ: مہ۔ ذبح کرنا۔ بھانا۔ سمندر کے پانی کا
 آثار۔
 الْجَزْرُ: ہر وہ جانور جس کا ذبح کرنا جائز ہو۔ واحد
 جَزْرَةٌ: ذبیحہ۔ جَزْرُ السَّبَاعِ: وہ گوشت جس کو
 درندے کھائیں۔ کہا جاتا ہے۔ "لو كوهوم
 جَزْرًا" یعنی انہوں نے ان کو صحرا میں قتل کر دیا
 الْجَزْرُ: وہ زمین جہاں سے مد (جوار) لوٹے۔ و
 (الجزر) گار۔
 الْجَزْرُ وَالْجَزْرِيُّ: ذبح کرنے والا۔
 الْجَزْوَرُ: ذبح کے لیے اونٹنی یا کبھی۔ جِ جَزْوَرُ
 جَزْوَرَاتٍ وَجَزَائِرٍ۔
 الْجَزْوَاةُ: ذبح کیے ہوئے جانور کے اطراف
 (یعنی سری پائے) اس لیے کہ ذبح کرنے والا ان کو
 ذبح کرنے کی اجرت میں لیتا ہے۔ وہ چیز جس کو ذبح
 کرنے والا ان کی اجرت میں لے۔
 الْجَزْوَاةُ: ذبح کرنے کا پیشہ۔
 الْجَزْوِيَّةُ: جِ جَزَائِرٍ وَجَزْوَرٍ جَزْرًا: ذبح کرنے والا
 حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ دو آب کے
 ممالک جزیرہ العرب: ملک عرب۔ (اور یہی
 الحقیقت جزیرہ نما ہے۔ الْجَزَائِرُ: شمالی افریقہ میں
 ایک ملک کا نام۔ الْجَزَائِرُ الْخَالِدَاتُ: بحرِ میحل
 (الٹلائک) کے مغربی حصہ میں چھ جزیرے۔
 الْمَجْزَرُ: فسخ۔ بوجھ خانہ۔ عوام اس کو
 منسوخ کہتے ہیں۔
 جَزَعُ (ف) جَزَعًا: الوادی: پار کرنا۔ _____ لَهُ
 مِنْ مَقَالِهِ جَزْعَةٌ: ایک حصہ دینا۔
 جَزَعُ (س) جَزَعًا وَجَزْوَعًا: مہ۔ بے صبری
 کرنا۔ _____ عَلَيْهِ: ذرنا۔ صفت (جَزَعٌ وَجَزَاعٌ
 وَجَزَعٌ وَجَزَاعٌ وَجَزْوَعٌ)
 جَزَعَةٌ: تسلی دینا۔ بے صبری ذاکل کرنا۔ جَزَعُ
 الشَّيْءِ: کلڑے کلڑے کرنا۔ _____ الْحَوْضُ:
 تھوڑے پانی والا ہونا۔
 أَجْزَعَةٌ: گھیرا دینا۔ (أَجْزَعُ مِنْهُ جَزْعَةٌ: ایک
 حصہ پانی چھوڑ دینا۔

الْجَزْزُ: کترے یا کائے والا۔
 المَجْزُ: کترلی۔ قہجی۔
 جَزْأُ (ف) جَزْأَةُ الشَّيْءِ: اجزاء میں تقسیم
 کرنا۔ ایک جزء لیانا۔ (وَجَزْأُ وَاجْتَزَأُ)
 بِالشَّيْءِ: اکتفاء کرنا۔
 جَزْأُ لَجَزْأَةٍ وَتَجَزَيْتَا: الشَّيْءُ: تقسیم کرنا۔
 (جَزْأُ وَأَجْزَأُ) بِالشَّيْءِ: قائل بنانا۔ کہا جاتا ہے
 "جَزْأُ الْعَاشِيَةِ بِالرُّغْلِبِ عَنِ الْمَاءِ" جانور کو تر
 گھاس کھلائی اور پانی پلانے کی ضرورت نہیں
 ہوئی۔ أَجْزَأُ عَنْهُ: مستغنی ہونا۔
 تَجَزَأُ: تقسیم ہونا۔
 الْجَزْءُ: بعض۔ کفایت۔ کہا جاتا ہے لکھی
 هَذَا عِشَاءُ وَجَزْءُ تَمَارِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهَا۔
 الْجَزْءُ: چیز کا ایک حصہ۔ جِ اجزاء اور اسی
 معنی میں جَزْءُ و جَزْءٌ بھی ہے۔
 الْجَزْئِيُّ: جڑ کی جانب منسوب۔ کھلی کی ضد۔
 الْجَزْئِيَّةُ: ضد کھیت۔ جِ جِزئیات۔
 الْجَزْءُ: چھری۔ ستلی وغیرہ کا رستہ۔
 الْمُجْزَأُ وَالْمَجْزَأَةُ وَالْمَجْزَأُ وَالْمَجْزَأَةُ:
 کسی چیز کا اتنا حصہ جو کافی ہو۔ کہا جاتا ہے۔ "أَجْزَأُ
 مَجْزَأُ فُلَانٍ وَمَجْزَأُهُ وَمَجْزَأَانَهُ وَمَجْزَأَانَهُ"
 وہ فلاں کا تمام مقام ہوا۔
 الْجَزْئِيُّ وَالْمَجْزِيُّ: من الطعام: آسودہ
 کرنے والا۔
 الْجَوَازِيُّ: نسل گائے جو صرف گھاس چرتی
 ہے اور زیادہ پانی کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔
 جَزَعُ (ف) جَزَعًا لَهُ مِنَ الْمَالِ: حصہ دینا
 _____ الرَّجُلُ: اپنے کام کے لیے جانا
 _____ الطَّبِيَاءُ: اپنی بھارتی میں داخل ہونا۔
 الْجَزْحُ: مہ۔ عطیہ۔
 الْجَزْدَانُ: بزودان۔ رستہ۔ تھیلی۔
 جَزْرٌ (ن ض) جَزْرًا وَجَزْرًا وَجَزْرًا
 وَاجْتَزَرَ: ذبح کرنا۔ جَزْرُ التَّخْلَةِ
 جَزْرًا: کاٹنا۔
 جَزْرٌ (ن ض) جَزْرًا: البحرُ: سمندر کا پیچھے
 ہٹنا۔ _____ الْمَاءُ: خشک یا کم ہو جانا۔
 أَجْزَرَ: النخلُ: کاٹنے کا وقت آنا۔ الشَّيْخُ:
 مرے کا وقت آنا۔ _____ فَلَانًا: ذبح کرنے کے

اليد من العمل : کام کرنے کی وجہ سے سخت ہوتا۔ صفت (جاسمۃ وجسشاء)
 الجس : سخت کھال۔ جمادیاہو پانی۔
 الجاسی : من النبات ونحوہ : خشک
 جسید (س) جسدا۔ اللحم بہ : چکنا۔ (جسیدہ وجاسیدہ)
 جسدة : زعفران سے رنگنا۔
 تجسد : تن آور ہونا۔
 الجسد : بدن انسانی۔ زعفران۔ خشک خون ج
 آجساد نسبت کے لیے (جسدی وجسدانی)
 الجسد : زعفران۔
 الجسد : بیٹ کا درو۔
 الجسید : خشک خون۔
 الجسد : کردہ جو بدن سے متصل ہو بہیمان
 جس (ن) جسارۃ وجسورۃ علی الامر :
 اقدام کرنا (وتجاسر) فخر کرنا۔ جری ہونا۔
 جس (ن) جسور : پل بنانا واجتسر
 المفاضة : بیور کرنا۔
 جسورۃ : بہادر بنانا۔
 الجسر والجسور : پل۔ ج جسور و
 آجسر۔ الجسر من الابل : بڑا اونٹ —
 من الرجال : بڑے ڈیل ڈول کا مرد مؤنت
 جسورۃ۔
 الجاسر ج جسار وجاسور و
 (الجسور) ج جسور وجسر : دلیر۔ جس قدی
 کرنے والا۔ مؤنت جاسرۃ وجسور۔ ج
 جواسر۔
 الجسورۃ : دلیری۔ بہادری۔
 الجسار : بہت دلیری کرنے والا۔
 جسع (ف) جسوعا۔ عن العطاء : باز رہنا۔
 زک جانا۔
 الجاسع من السفر : لمبا سفر۔
 جسع (ک) جساعة : بھور ہونا۔ صفت
 (جسام وجسیم) ج جسام مؤنت (جسیمۃ
 وجساعة)
 جسمة : تن آور ہونا کرنا۔
 تجسم : بھور ہونا ہونا۔

الجزءة : بھڑوں کے روڑا ایک حصہ۔ بقاۃ
 او اناۃ (وجزم) : بھری ہوئی ٹھک یا برتن۔
 جزوی (ض) جزاء الرجل بکلامه وعلی کذا
 : بدلہ دینا۔ جزوی فلاناً حقہ : ادا کرنا۔ جزاء
 الشئی : کافی ہونا (—) وجزئی الامر منہ او
 عنہ : قائم مقام ہونا۔ تم کہتے ہو۔ "یجزی ہذا من
 او عن ذاک" یہ اس کے قائم مقام ہے۔
 جزاءہ فجزاءۃ وجزاء : بدلہ دینا۔
 تجازی تجازیاً : دینہ و بدینہ علی فلان :
 طلب کرنا۔ تقاضا کرنا۔
 اجتزأہ : بدلہ مانگنا۔
 الجزاء والجزاء والجزایۃ والمجازاة :
 کسی چیز کا بدلہ۔ الجزایۃ کی جمع الجوازی۔ کہا
 جاتا ہے "جز تک الجوازی" یعنی تم نے اپنے
 نفل کا بدلہ لیا۔
 الجزیۃ : زمین کا محصول۔ نکس جوڑی سے لیا
 جائے۔ ج جزوی وجزوی وجزاء۔
 الأجزوی : بہت کافی۔ تم کہتے ہو "اللحم
 السمین أجزوی من المہزول" موٹا گوشت
 دلے سے زیادہ بہتر ہے۔
 جسۃ (ن) جسارۃ واجتسۃ : معلوم کرنے کے
 لیے ہاتھ سے پھوننا۔ الارض : روندنا۔
 مہینہ : بھورنا۔ جز نظر ڈالنا۔
 جس وجس وجس وجس وجس : الاخباز او
 الامور : تفتیش کرنا۔
 الجسینس : ج آجسہ و (الجاسوس) ج
 جواسیس والجسائس : جاسوس۔ نمائی کی
 نیت سے خبروں کی تفتیش کرنے والا۔
 جواس : انسان : انسان کے حواس خمسہ
 واحد (جاسمۃ)
 الجس وجس وجس : بھونے کی جگہ۔ سینہ۔
 کہا جاتا ہے "فلان ضیق الجس او
 الجسۃ" فلان تنگ دل ہے۔ الجسۃ :
 نبیل۔ کہا جاتا ہے۔ "فجسۃ حارۃ" اس کی
 نبیل گرم ہے۔ ج جاس
 الجسۃ : چھونے کا آلہ۔ ج متجاس و
 وجسائت۔
 جسائت (ف) جسائت وجسورۃ او جساعة۔

رنہ۔
 أجزل : العطاء و فی العطاء ومن العطاء
 لفلان وعلیہ بہت دینا۔
 استجزلہ : کسی چیز کو بڑا یا موٹا یا کسی کلام کو
 فصیح پانا۔ استجزل راہہ : کسی کو صاحب الرائے
 پانا۔
 الجزل : ہمہ۔ موٹا۔ بڑا۔ بہت۔ فیاض۔ بہت
 دینے والا۔ عمدہ رائے والا۔ عمدہ الفاظ۔
 الجزل : خشک لکڑی۔
 الجزال والجزال : بھور کے پھل اتارنے
 کا وقت۔ کہا جاتا ہے "ہذا زمن الجزال" یہ
 بھور کے پھل اتارنے کا زمانہ ہے۔
 الجزال والجزیل : بہت بڑی۔
 الجزول : کیوڑا کیچڑ۔ ج جزوازل۔
 جزمہ (ض) جزما : کاٹنا۔ جزم الحرف :
 ساکن کرنا۔ الفعل : جزم دینا یا حرف علت یا
 تشبیہ و جمع سے نون گرا دینا۔ التیمیج :
 پوری کرنا۔ تم کہتے ہو "حلف یعینا جزما
 — الامر : کسی امر کا قطعی فیصلہ کرنا۔ تم کہتے ہو
 "امر نہ امر أجزما" میں نے اس کو لازمی حکم
 دیا۔ "وہذا حکم جزم" یہ لازمی و قطعی حکم
 ہے۔ جزم الی الامر : بہت ارادہ کرنا۔ جزم
 علیہ الشئی : واجب کرنا۔ الجزل : دن
 رات میں ایک ہی مرتبہ کھانا۔ (—) واجتزم)
 التخلۃ : پھلوں کا اندازہ کرنا۔ (—) وجزم)
 عنہ : بڑول ہونا عاجز ہونا۔ علیہ :
 خاموش ہونا۔ القربۃ : بھرتا۔
 تجزم العود : بھرتا۔
 الجزم : العظم : ٹوٹنا۔ الحرف :
 ساکن ہونا۔
 الجزم : کہا جاتا ہے "قلم جزم" برابر قلم
 والا۔ و "امر جزم" وقت سے پہلے آنے والا
 حطلہ۔
 الجزم : حصہ۔
 الجزم : جزم کا عمل کرنے والا۔ جیسے لہم۔
 سقاۃ جازم : بھری ہوئی ٹھک۔ بھور جازم :
 برباد ہونے والا۔ ج جزوم۔
 الجزمۃ : دن رات میں ایک مرتبہ کھانا۔

تَجَشَّمُ فِي عَيْنِي كَلِّدًا: خيال میں آنا
 الامر: کسی بڑے کام کی طرف اقدام کرنا
 الرمل: ریگستان کے بڑے حصے کو طے کر لینا
 _____ فَلَائِنَا مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: انتخاب کرنا
 _____ الارض: ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "تَجَشَّمُ فَلَائِنَا مِنَ الْكُرْمِ" فلاں پودا فیاض ہے
 گویا کہ وہ کرم کا مجسم ہے۔
 الجِشْمُ: بدن۔ وہ چیز جس میں طول عرض
 متن ہو۔ جِشَامٌ وَأَجْشَامٌ وَجُشُومٌ۔ نسبت
 کے لیے (جَسْتَوَى وَجَسْمَانِي)
 الجِشْمَانُ: بدن۔
 الجِشْمُ: بڑے بڑے امور۔
 الأَجْشَمُ: تاجدار اور بیٹا۔
 المُجَشَّمُ: وہ عدد جو کسی جسم کی لمبائی کو
 عرض و متن میں ضرب دینے سے حاصل ہو۔ ہر
 وہ چیز جس میں طول عرض متن ہو۔
 جِشَا (ن) جَشُوْا وَجَشُوْا: بمعنی جَسَا۔
 جِشَا مِمَّا جَسَاةٌ: خوشی کرنا۔
 جَشَّةٌ (ن) جِشَا: کوٹنا۔ توڑنا۔ جَشَّ
 المكان: بھاڑو رہا۔ صاف کرنا۔ _____ ہ
 بالعصا: لاشمی سے مارنا _____ ذمقہ: برانا
 _____ القوم: کوچ کرنا۔ اکٹھا ہونا۔
 أَجَشَّ - الشَّيْءُ: کوٹنا۔ توڑنا _____ النَّبْرُ:
 مونا پیرنا۔ صفت مفعول (جَشِيْنٌ وَ
 مَجَشُوْشٌ)
 أَجَشَّ وَاجْتَشَّ - المكان: گنجان گھاس والی
 ہوتی۔
 الجِشَّ - م - مَوْضِعٌ جَشَّ: سخت چھری
 جگہ۔
 الجِشَّ: بہاڑ۔ جِشَّاش۔
 الجِشَّةُ وَالجِشَّةُ: لوگوں کا ایک ساتھ آنے
 والا گروہ۔ بھدی آواز۔
 الأَجَشَّ: بھدی آواز والا آدمی۔ مؤنث
 جِشَاء۔
 المِجْشُ وَالمِجْشَّةُ: جگہ۔
 جِشًا نَكْسُهُ (ف) جِشُوْا وَجِشُوْا وَجِشًا:
 غم یا گہرا غم کی وجہ سے جی ملنا _____
 المكان: خوب پیداوار ہوتی۔ _____ من

المكان: فلانا _____ البحر: جوش میں آنا۔
 جِشًا تَجَشَّمَةٌ وَجِشًا تَجَشَّمًا: ڈکار لینا۔
 اجْتَشَّ: البلاد و اجْتَشَّاهُ البلاد: ناموافق
 ہوتا۔
 الجِشَاءُ: ڈکار۔ واحد جِشَاءٌ وَجِشَاءَةٌ۔
 جَشَبَ (ف) وَ جَشِبَ (س) جَشَبًا وَ
 جَشَبَ (ك) جِشَابَةٌ۔ الطعام: موٹا و بد مزہ
 ہوتا۔ صفت (جَشَبٌ وَ جَشِبٌ وَ جَشِيْبٌ وَ
 مِجْشَابٌ وَ مِجْشُوْبٌ) وَ جَشَبَ الرَّجُلُ: بد
 غذا ہونا۔
 المِجْشَبُ: موٹے جسم والا بہادر۔
 جَشَّرَ (ن) جَشَّرًا وَ جَشَّرَ: المواشي:
 چرانے کے لیے لے جانا۔ وَ جَشَّرَ الاناءَ: خالی
 کرنا۔
 جَشَّرَ (ن) جِشُوْرًا۔ المصباح: پوپھٹنا _____
 الرَّجُلُ: سز کرنا۔
 جِشِرَ (س) جِشَّرًا وَ جِشِرَ: کھانا۔ آواز
 پھینکا۔ صفت (أَجْشِرٌ) مؤنث جِشْرَاءٌ۔ جِ
 جِشَّرٌ۔
 الجِشَّرُ وَالجِشَارُ: موٹی بو چراگاہ سے لوٹ
 کر شام کو گھر نہ آئیں۔ وہ لوگ جو چراگاہ میں
 رات گزاریں اور گھر واپس نہ آئیں۔
 الجِشَارِي: چرواہا۔
 المِجْشَرُ: حوض۔ جِشَارِي۔
 الجِشَرِي: بچرے کا تیروان۔
 الجِشَارُ: کمانسی۔
 الجِشُوْرَةُ: بید کی تختی۔ ٹھگ کمانسی۔
 جِشِعَ (س) جِشَعًا وَجِشَعٌ: بدترین قسم کا
 لالچی ہونا۔ صفت (جِشِعٌ) جِشِعُوْنَ
 وَجِشَاعِي وَجِشَاعِي وَجِشَاعٌ۔
 تَجَشَّاعًا: الماء: باہم ٹھگی کرنا اور بیا سار ہونا۔
 جِشِمَ (س) جِشَمًا وَجِشَامَةٌ وَتَجَشَّمُ
 الامر: سخت سے کام کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "جِشِمْتُ اليك عرق القرية" تمہاری وجہ
 سے بڑی مصیبت جمی۔ وَتَجَشَّمُ الرمل:
 ریگستان کے بڑے حصے کو طے کیا۔ "وَ تَجَشَّمُ
 فَلَائِنًا مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: اس نے قوم سے فلاں کا
 انتخاب کیا اور اس کی روش پر چلا۔

جِشَمَةٌ وَأَجْشَمَةٌ: امر: کوئی کام کرنے کی
 تکلیف دینا۔ "مهما تَجَشَّمْنِي فإني تَجَشَّمُ"
 جس کا تو مجھ کو تم سے گامیں کروں گا۔
 الجِشْمُ وَالجِشْمُ: بوجھ۔ ہماری کام۔ کہا
 جاتا ہے "القي عليّ جِشْمَهُ" اس نے میرے
 اوپر اپنا بوجھ ڈال دیا _____ من البعير: بید۔
 الجِشْمُ وَالجِشْمِيْنُ: موٹا۔ ہماری۔
 الجِشُوْنُ: بید۔ زرہ۔ جوشن اللیل:
 آدمی رات۔
 جِشَّ (ض) جِشًا وَجِشِيْنًا: سخت بندہ
 جانے کی وجہ سے کہا ہوتا۔
 جِشَّصَ: البناء: کچ کرنا _____ الجِرْوُ:
 آگھیس کھولنا _____ العنقودُ: پھوٹا _____
 على العدو: حملہ کرنا۔
 اجْتَشَّ وَتَجَشَّصَ: القومُ: قریب قریب
 اکٹھا ہونا۔
 الجِشَّصُ وَالجِشَّصِي: کچ۔ چونہ۔
 الجِشَّصُ: کچ والا یا کچ بچنے والا۔
 الجِشَّصَاةُ: کچ بنانے کا کارخانہ۔
 الجِشَّصِيصُ: فریاد و نالہ۔
 الجِشَّصِيصَةُ: آواز۔ شور و غما۔ پاس پاس
 رہنے والا گروہ۔
 جِشَّصَ (ن) جِشَّصًا عَلَيْهِ بالسيف: حملہ کرنا۔
 جِشَّصَهُ (ف ض) جِشَّصًا وَجِشَّصَةً تَجِشَّصًا وَ
 جِشَّصًا جِشَّصًا وَجِشَّصًا: اٹک رہا۔ بھاڑ رہا۔
 جِشَّصَ (الجِشَّصَةُ) تَرَشَّصًا۔
 تَجَشَّصَ وَالجِشَّصَ وَتَجَشَّصِي: بچھڑ جانا۔
 تَجَشَّصِي الجِشَّصِ: کثرت کے ساتھ جِشَّصًا ہونا۔
 الجِشَّصَةُ: تَرَشَّصَ۔ جِشَّصًا۔
 الأَجِشَّصُ: بڑے بیٹے والا جو کام کرنے میں
 مست ہو۔ مؤنث جِشَّصًا۔ جِشَّصًا الجِشَّصَاءُ:
 ڈیر۔
 الجِشَّصَابُ: تَرَشَّصَ بنائے والا۔
 الجِشَّصَابَةُ: تَرَشَّصَ بنائے کاپیشہ۔
 الجِشَّصُوْبُ: بست قدر شکل۔ جِشَّصًا۔
 الجِشَّصِي وَالجِشَّصَالَةُ: حلقہ ڈیر۔
 المِجْشَّصُ: ہر ایک کو کچا ڈیر بنانے والا۔
 جِشَّصَ: البعير: شملہ یا اٹھانے کے لیے

الْبَجَعُ: سیاہ قام بد صورت مرد۔ یا بھگڑا لو۔
 تمہاں۔ ماءٌ (بَجَعٌ و بَجَعِلٌ) وہ پانی جس میں
 کیرے مت ہوں۔
 الْجَعَالُ: جَعَلٌ و (الْبَجَعِلُ) جِ أَعْمَالٍ و
 (الْبَجَعَالَةُ) بتالیث الجیم و (الْبَجَعِيلَةُ) جِ
 بَعَائِلٍ: اُخْرَت۔ مزدوری۔ جنگ کرنے والے
 کا وظیفہ۔
 الْجَعَالُ: چولے سے دیگ اتارنے کا پتھرا۔
 صانی۔
 الْجَعُولُ: شتر مرغ کا پتھر۔
 بَعَمَهُ (ف) جَعَمًا جانور کے منہ پر تھو تھنی
 چڑھانا۔
 بَعَمٌ و بَعِمٌ (س) ف) جَعَمًا: کھانے کی
 خواہش نہ ہونا۔ کھانے کی خواہش کرنا۔ کہا جاتا
 ہے ”بَعِمَ إِلَى اللَّحْمِ“ وہ گوشت کھانے کا
 بہت خواہش مند ہے۔ بَعِمَ و تَبَعِمَ: فی
 الشَّيْءِ: طمع کرنا۔ صفت (بَعَمٌ و بَعِمٌ)
 أَعَمَ: الشَّيْءِ: درخت کے سارے پتے چر
 لینا۔ الشَّيْءِ: بڑے اُکھیرنا۔
 الْجَعْمُ: بھوک۔
 الْجَعِيمُ: بھوکا جو ہر چیز کو دیکھ کر کھانے کی
 خواہش کرے۔
 الْمَجْعَمُ: جائے پناہ۔
 الْجَعْمُوسُ: گوبر۔
 جَعَانٌ (ن) جَعَوًا: البعور و نحوه: ڈیر لگانا۔
 الْجَعْمَةُ: جو کی شراب۔
 الْجَعْوُ: ہاتھوں سے جمع کیا ہوا ڈیر۔ کچھ۔
 چوڑ۔
 الْجَعْرَاقِيَّةُ: جغرافیہ۔
 جَعْفٌ (ض) جَعْفَافٌ و جَعْفُوفٌ: خشک ہونا
 صفت (جَافٌ و جَفِيفٌ) کہا جاتا ہے۔ ”جَعْفٌ
 لِبَدِهِ“ یعنی اس نے اقامت اختیار کر لی اور سفر
 کرنا چھوڑ دیا۔
 جَعْفٌ (ن) جَعْفًا: الممال: جمع کر کے لے کے
 چل دینا۔
 جَعْفَةٌ تَجْفِفُهَا و تَجْفَافًا: خشک کرنا۔ جَعْفٌ
 الْفَرَسُ: پاکر پھراننا۔
 تَجْفَفٌ: خشک ہونا۔

الْبَجَاعِرُ تَان: دونوں ران کے وہ حصے جہاں پر
 زہ پلانے میں پہنچتی ہے۔
 الْحَجَفُ أَوْ الْمَجْفُورُ: دربر۔
 جَعَسَ (ف) جَعَسًا: الرَّجُلُ: پاخانہ کرنا۔
 تَجَعَسَ: گھن کھانا۔ قش بکنا۔
 جَعِظَ (س) جَعِظًا: عُضْبَانًا و بَدْعُلُقًا ہونا۔
 صفت جَعِظٌ و جَعِظٌ۔
 جَعِظَةٌ (ف) جَعِظًا و جَعِظَةً: دُخِعَ: کرنا۔ بنانا۔
 جَعِظَةٌ (ن) جَعِظًا و جَعِظَةً: بِيحَاثًا۔
 جَعْفٌ و اجْتَعَفَ: الشَّجَرَةُ: بڑے اُکھیرنا۔
 اجْتَعَفَتِ الشَّجَرَةُ: بڑے اُکھیرنا۔
 مَسِيلٌ (جَافٌ و جَعْفٌ) تمام چیزوں کو ہالے
 جانے والا سیلاب۔
 الْجَعْفُ: سم۔ تھوڑی روزی جس سے کچھ نہ بچ
 سکے۔
 الْجَعْفُورُ: نالہ۔ ندی۔ بہت دودھ والی اونٹنی۔
 جَعْفَلٌ جَعْفَلَةٌ: زین سے زمین پر گرانا۔
 جَعَلَ (ف) جَعَلًا: بنانا۔ پیدا کرنا۔ جیسے ”جعل
 اللہ الظلمات“ رکنا۔ تبدیل کرنا۔ جیسے ”جعل
 الحسن قبيحا“ گمان کرنا جیسے ”جعل الحق
 باطلا“: اس نے حق کو باطل گمان کیا۔ مقرر کرنا
 جیسے ”جعلہ حاکمًا“ اس نے اسے حاکم مقرر کیا
 ___ لہ کَذَا اَعْلَى كَذَا: شرط باندھنا۔ شروع کرنا۔
 جیسے ”جعل يكتب“ وہ لکھنے لگا۔ اور دینے کے
 معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے ”اجعل لي لسان
 صديق“ مجھ کو نیک نالی دے۔
 جَعَلَ (س) جَعَلًا: الماء: پانی میں کیڑوں کی
 کثرت ہو جانا ___ العلام: موٹائی کے ساتھ
 بہت تھ ہونا۔ ___ الرَّجُلُ: بھگڑا ہونا۔
 جَاعِلَةٌ مُجَاعِلَةٌ: رشوت دینا۔
 أَجْعَلُ: لہ: مزدوری مقرر کرنا۔ ___ الماء:
 پانی میں کیڑوں کی کثرت ہونا ___ أَجْعَلُهُ
 جَعْفًا: مزدوری دینا۔
 تَجَاعَلُوا الشَّيْءَ: آپس میں کر لینا۔
 اجْتَعَلَهُ: گھڑنا۔ ___ الشَّيْءَ: بنانا۔ لینا۔ تم کہتے
 ہو ”جعلہ الشَّيْءًا جَعْلَهُ“ اس نے اس کو ایک
 چیز دی اور اس نے لے لی۔
 الْجَعْلُ: گھریلا کی ایک قسم۔ جِ جَعْلَانُ۔

حرکت دینا۔ بھانا۔ ___ البعيرُ: بیٹھنا۔
 بِالْفَرِيمِ: سختی سے مطالبہ کرنا ___ فی
 الْمَكَانِ: غیر مطمئن حالت میں بیٹھنا۔
 تَجَفَّجَعَ: درو کی وجہ سے زمین پر گر پڑنا۔
 الْجَعْفَجَعَةُ: سم۔ اکٹھے ہونے والے اونٹوں کی
 آواز۔ بچکی کی آواز۔ اور اسی سے مثل ہے
 ”أَسْمَخَ جَعْفَجَعَةً لَأَرَى طَيْخًا“ بچکی کی آواز
 سنتا ہوں اور آثار کھائی نہیں دیتا۔ اس شخص کے
 حق میں بولتے ہیں جو دھمکی تو دے اور کچھ کر کے
 نہ دکھائے یا اس بخیل کے حق میں جو وعدہ تو
 کرے اور پورا نہ کرے۔
 الْجَعْفَجَاعُ: ننگ اور سخت جگہ۔ معرکہ
 جگہ۔ قحط زدہ زمین۔
 جَعَدٌ (ك) جَعَادَةٌ و جَعْدَةٌ: الشعيرُ:
 ٹھنکھریالے ہونا۔
 جَعَدَ الشَّعِيرُ: ٹھنکھریالے بنانا۔
 تَجَعَّدَ: الشعيرُ: ٹھنکھریالے ہونا۔ و تَجَعَّدَ
 الشَّيْءُ: سبکڑا۔
 الْجَعْدُ: من الشعيرُ: ٹھنکھریالا۔ کہا جاتا ہے
 ”هو جَعْدٌ لِبَدِهِ“ وہ بخیل ہے۔ و جَعْدٌ الْقَفَا“
 جس کے حسب میں کھوت ہو۔ جِ جَعَادٌ: تروا ب
 جَعْدٌ: نمناک مٹی۔ وَجْهٌ جَعْدٌ: کم لاحت والا
 گول چہرہ۔ زَيْدٌ جَعْدٌ: تہہ پر تہہ کھن۔ (ابو
 جَعْدُهُ و ابو جَعَادَةُ ابو جَعَادَةُ): بھیرنے کی
 کیفیت۔
 جَعَزَ (ف) جَعَزًا و الْجَعَزُ: السَّبْعُ: پاخانہ
 کرنا۔
 تَجَعَزَ: کوئیں میں گرنے کے خوف سے گر
 میں رستی باندھنا۔
 الْجَعْرُ: سم۔ دروغے کا پاخانہ۔ جِ جَعُورُ
 الْجَعَارُ: رستی جس کو کوئیں میں اترنے کے
 وقت کمرے سے باندھ لیں اور اس کا دو سر اُکھارہ کسی
 کھونٹے سے تاکہ گرنے سے محفوظ رہیں۔ جانور
 کی رانوں کے داغ۔
 جَعَارٌ بَرُوزٌ قَطَامٌ و (ابو جَعَارٌ و أم جَعَارِي):
 بچو۔
 أَبُو جَعْرَانُ: گھریلا۔
 أُمُّ جَعْرَانُ: بڑا گدھ۔

مرغ جو ہر چیز سے بد کے ہاتھی کی لید۔ کشنی ج جفول۔

الجفلة۔ من الشجر: بہت پتوں والا درخت۔

الجفلة: اُون کا کلا۔

الجفان: دودھ کی جھاگ۔ بہت اُون۔ سیلاب کا خس و خاشاک۔

الجفالة۔ من القدر: ہانڈی کی جھاگ۔

الجفالة: لوگوں کی جماعت۔ سیلاب کا خس و خاشاک۔

ريح (جفول) ج جفول و مضخف و مضخفان و مبخفالة: تیز ہوا جو بالوں کو اڑالے جائے۔

الجفلی: دعوت غامہ۔ کہا جاتا ہے ”ذعی فلان فی التقوی لافی الجفلی“: وہ دعوت خصوصی میں پایا گیا نہ دعوت عمومی میں۔

الجفیل: بہت۔ زراعت کا اتر بواہا ہوا حصہ جو کاٹ دیا جائے۔

الاجفلة: جماعت۔ کہا جاتا ہے ”جناؤا اجفلة“

الاجفیل: بزدل۔

الجفلی: بہت موٹی بڑھی۔

جفن (ن) جفنا۔ الناقہ: ذبح کر کے بڑے پیالوں میں کھانا۔ _____ نفسہ: بڑائیوں سے روکنا) _____ و تجفن (الکرم: جز پکڑنا۔

جفن: بڑے پیالوں میں کھانا _____ و اجفن: بہت جمع کرنا۔

الجفن۔ مہ۔ اُوپر نیچے کا پوند۔ نیام۔ ج اجفان و جفون و اجفن۔ الجفن: انگوڑی کی جڑیا ٹہنیاں۔ واحد جفنة۔

الجفنة: بڑا پالہ۔ وہ برتن جس میں شراب بنائی جائے۔ چھوٹا کنواں ج جفن و جفان و جفئات۔

جفا یجفون جفان و جفانہ: ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا _____ علیہ کذا: گراں ہونا _____

الثوب: موٹا ہونا۔ جنبہ عن الفراض: قرار نہ پانا۔

جفا (ن) جفوا و جفان و جفا۔ صاحبہ: امراض کرتا۔ بد سلوکی سے پیش آنا۔

الشئی: کشادہ ہونا۔ جفیر من المرض: صحت یاب ہونا۔ جفر ماکان فیہ: چھوڑنا۔ جفر صابحة: قطع تعلق کرنا۔

الجفیر۔ مہ: کشادہ کنواں۔ ج جفان۔ کہا جاتا ہے ”فلان منہذم الجفیر“ فلاں بے عقل ہے ”و فعلت ذلك من جفرو او جفیر کذا“ میں نے اس کو اس کی وجہ سے کیا۔ علم الجفیر: علم جفر ایک علم ہے جس میں اسرارِ حروف سے بحث کی جاتی ہے۔

الجفیرة۔ من الشئی: وسط۔ درمیان۔ _____ من الارض: گول کشادہ زمین۔

الجفیر: کڑی کا ترکش جس میں چمڑا نہ ہو یا چمڑے کا جس میں کڑی نہ ہو۔

الجفوی: شگوفہ خرا کا غلاف۔

المجفوة: بے تعلق کاسب۔

جفیس (س) جفسا و جفاسا: بد معنی ہونا۔ الجفیس والجفیس: کمزور۔ التیمہ: کینہ۔

جفظ (ن) جفظا۔ الاءاء: بھرا۔

اجفانک و اجفانک: اجفینظا۔ المقتول: پھول جانا۔ صفت (جفینظ)

المجفینظ: قریب بہ ہلاکت۔

جفعہ (ف) جفعنا: بچھاڑنا۔

جفل (ن) جفلا۔ الطائر: بھگانا۔ کہا جاتا ہے۔ جفل القناض الوحش عن مراعیها“ شکاری نے وحشی جانوروں کو ان کی چراگاہوں سے بھگانا

_____ البخر السمک: کنارہ پر ڈال دینا _____ الریح السحاب: اڑالے جانا _____ ہ: بچھاڑ دینا _____ الطین: نیچے سے کھرچ لینا _____

المتاع: بعض کو بعض پر رکھنا _____ الفیل: لید کرنا۔

جفل (ن) جفول و جفلا و اجفل _____ البعیر بدنا“ بھگانا“ صفت جافل و جفان _____ النعامہ بھگانا _____ الریح: تیز چلنا۔

_____ و انجفل و تجفل القوم: تیز بھگانا۔ جفلة: بد کاٹا۔ بھگانا۔

تجفل الدیک: کفنی کو پھڑکانا۔ الجفل۔ مہ: بالوں جو پانی برسا کر کھل جائے۔ شتر

اجفنف۔ ماہی الاءاء: برتن کا سب کچھ کھا جانا۔

الجفف و الجففة و الجفف و الجففة: لوگوں کی جماعت۔ بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے ”جاء القوم جففة“ ساری قوم آئی۔ الجفف: کھوکھلی نالی والی چیز۔ بوڑھا۔ کہا جاتا ہے ”هو جفف مال“ وہ مال کا منظم ہے۔ الجففة: بڑا ڈول۔

الجفف: سخت و خشک زمین۔ الجففیف: خشک گھاس۔

الجفاف: سوکھی ہوئی چیز۔ الجفاف و التجفاف: برگستون۔ پاکیزہ ج جفافیف۔

جفا (ف) جفا۔ التھز: جھاگ پھینکنا _____ القدر: اُبلنا _____ القدر: اُٹھیل دینا۔ جفا الرجل و جفا بہ الارض: چلک دینا۔

اجفا۔ بہ: پلک دینا۔ بچھاڑ دینا _____ الناقا: چلا کر تھکا دینا _____ الباب: بند کر دینا۔

اجفاف و تجففات۔ البلاؤ:۔۔ _____ بے برکت ہونا۔

اجفنا۔ الشئی: اکھیر کر پھینکنا۔ الجفان: سیلاب کی خس و خاشاک۔ بیکار۔ بے فائدہ۔ کہا جاتا ہے۔ ”ذهب جفانہ“ رائیگاں گیا۔

جفف۔ الابل: تیزی سے ہانکنا کہ ایک دوسرے کے اُوپر چڑھنے لگیں۔

تجفف جف۔ الطائر: اُڑے بیٹا۔ _____ الثوب: خشک ہونا اور کچھ نمی باقی رہ جانا۔

الجفف جف: بلند زمین۔ پست زمین۔ بہت بیورہ کئے والا۔

الجفف جف: نئے کپڑے کی آواز۔ جفف جفہ الموکب: سواروں یا پیادوں کے پلٹنے کی آواز۔

الجفان جف: بیعت و لباس۔ جفف (ف) جففنا: تکبر کرنا۔ فخر کرنا۔ صفت (جفناخ)

جفافحہ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ جفر (ن) جفرو و تجفرو و استجفرو۔ ولد الشاة: بڑا ہونا اور بڑے پیٹ والا ہونا۔ _____

<p>و علی الامر: مجبور کرنا۔ بالارض: بچھاڑنا۔ جلدت الحية: بونا۔</p> <p>جَلَدٌ (ک) جَلَدًا و جَلَادَةٌ و جَلُودَةٌ و مَجْلُودًا: مجبوراً استقال و قوت دکھانا۔</p> <p>جَلَدٌ (س) جَلَدًا و جَلَدًا و أُجِلِدَ: مکان: پالاڑنا۔ صفت مشغول (مَجْلُود)</p> <p>جَلَدٌ: کتاب: جلد باندھنا۔ العجزور: کمال آتارنا۔</p> <p>جَلَادَةٌ: بالسيف: تلوار سے مارنا۔</p> <p>أَجَلَدُهُ: اليه: تھم جانا۔ مجبور کرنا۔</p> <p>تَجَلَدٌ: مجبوراً استقال ظاہر کرنا۔</p> <p>تَجَلَدُوا و اجْتَلَدُوا: بالسيف: تلوار سے مارنا۔ اجْتَلَدُوا: اناء: سارانی جانا۔</p> <p>الجَلْدُ: م۔ مضبوط۔ قوی۔ ج۔ اجلا۔ موت جَلْدَةٌ و آجَلَادُ الانسان و (تجالده) جم و اعضاء تم کہتے ہو "ما اشد اجلا فلان با جلا دايه" قال کے اعضاء اس کے باپ کے اعضاء سے کس قدر مشابہ ہیں۔</p> <p>الجَلْدُ: م۔ آسان یا ٹیلا گنبد۔ کھل (کھل) و الجَلْدَةُ: تخت زمین۔</p> <p>الجَلْدُ کمال۔ ج۔ آجَلَاد و جَلُود و (الجَلْدَةُ) کھل کا ٹکڑا یا کھل کی قسم۔ ج۔ جَلْدٌ۔ کہا جاتا ہے "ہم من جلدتنا" وہ لوگ اپنے ہی مشابہ ہیں۔</p> <p>الجَلِيدُ: قوت والا۔ صابر۔ چالاک۔ ج۔ جَلْدَاء و جَلَاد و جَلْدُ الجَلِيدِ: پالا۔</p> <p>الجَلَاد: بڑے سخت مجبور کے درخت۔ بہت دودھ والی اونٹیاں۔</p> <p>الجَلَادُ: کوڑے سے مارنے والا۔ تلوار سے مارنے والا۔ سزا دینے والا۔ کھل بچنے والا۔</p> <p>المَجْلُد و المَجْلُود: چمڑے کا ٹکڑا جس کو نوحہ کرنے والی عورت اپنے منہ پر مارا کرتی ہے۔</p> <p>کوڑا۔ ج۔ تَجَلَدُوا و تَجَلِيدُ: المَجْلُدَةُ: کوڑا۔</p> <p>عَظْمٌ (مَجْلُدٌ) صرف کھل لگی ہڈی۔ فوس مجلد: کوڑا مارنے سے نہ چوکنے والا گھوڑا۔</p> <p>اجْلُودٌ و اجْلُودًا: تیز جانا۔ اللَّيْلُ: لمبی ہونا یا ختم ہونا۔ ہم السیور: تیزی کے</p>	<p>جَلْع و اجْلَاح و جَلْحَان مَوْت جَلْحَاء النور: بے سبک والا ہونا۔ الارض: زمین کی گھاس کا پھیر لیا جانا۔</p> <p>القزى: خفاقی قلعوں کا پانی نہ رہنا۔</p> <p>جَلْحَت: الشجرة: اوپر سے کھایا جانا۔</p> <p>الارض: گھاس کا پھیر جانا۔</p> <p>جَلْعٌ على الشئ: سخت پیش قدمی کرنا۔</p> <p>فی الامر: بخت ارادہ کرنا۔ المسبع على القوم: حملہ کرنا۔ جَلْحَتِ الماشية الشجر: اوپر سے چرنا۔</p> <p>جَالْحَةٌ: کھلم کھلا دشمنی کرنا۔ جالِح بالشئ: کھلم کھلا کرنا۔</p> <p>الجَلْحَةُ: سر کے دونوں جانب بال گرنے کی جگہ۔</p> <p>الجَلْح: سخت سیلاب۔</p> <p>أَرْضٌ (جَلْحَاء) بغیر درخت والی زمین۔ بقرة جَلْحَاء: بے سبک والی گائے۔ قویۃ جَلْحَاء: بے قلمہ والی آبادی۔ سُطوح جَلْحَاء: بغیر درہ کی دیوار والی چھتیں۔</p> <p>صَفَةٌ (جَالِحَةٌ) خشک سال۔ ج۔ جَوَالِح۔ الجَوَالِح: وہ چیز جو بائس کے اندر سے روٹی کی مانند نکل کر اڑتی ہے۔ برف کے ٹکڑے جو ایک دوسرے پر گرے۔</p> <p>المُجَالِح: فـ۔ شیرہ۔ و المَجْلَاح و المَجْلَحَةُ: جاڑے میں دودھ دینے والی اونٹنی۔ ج۔ المَجَالِح: قحط جس میں مویشی وغیرہ بڑا ہو جائیں۔</p> <p>المُجَالِح: بہت کھانے والا۔</p> <p>جَلْعٌ (ف) جَلْحًا: السيل الوادی: مجبورنا۔</p> <p>دونوں طرف کے کناروں کو کاٹ دینا۔</p> <p>الشئ: کھینچنا۔ دراز کرنا۔ پہ: بچھاڑنا۔</p> <p>جَلْحَهُ بالسيف: گوشت میں سے کچھ کاٹ لینا۔</p> <p>و جَلْعٌ الموشى: تیز کرنا۔ میٹھل کرنا۔ (مولد)۔</p> <p>اجْلَعُ: الشبغ: کمزور ہونا اور اعضاء کا ڈھیلنا پڑ جانا۔</p> <p>الجَلَاخ: بڑا سیلاب۔ گرمی وادی۔</p> <p>جَلْدَهُ (ض) جَلْدًا: بالسياط: کوڑے مارنا</p>	<p>بہاوشربت۔ گلاب کا مرق۔</p> <p>الجَلْحَان: مڑ۔ چمڑے کا تھیلہ۔ اور کہا جاتا ہے "رجل جَلْحَان و جَلْحَان" شور مچانے والا مرد۔</p> <p>الجَلْبَاب و المَجْلَب: بد خلق بیسودہ گو۔ شور مچانے والا۔</p> <p>المَجْلَبَةُ: کسی چیز کے حاصل کرنے کا سبب۔ باعث۔</p> <p>جَلْبَبَةٌ: چادریا قمیص پٹنا۔</p> <p>تَجْلَبَبٌ: چادریا قمیص پٹنا۔</p> <p>الجَلْبَاب و الجَلْبَبَات: چادریا قمیص۔ ج۔ جَلَابِب۔</p> <p>جَلْدَهُ (ض) جَلْدًا و اجْتَلْدَهُ: مارنا۔</p> <p>جَلْعُل: الزجل: زور سے بولنا۔</p> <p>السحاب: گرنا۔ جَلْعُلَةٌ: حرکت دینا۔</p> <p>جَلْعُلُ الوتر: مضبوط ہونا۔ البعير: جھانچہ لگانا۔</p> <p>تَجَلَجَلَت: فواعذ البيت: بل جانا۔</p> <p>تَجَلَجَلٌ فى الارض: گھسنا۔ الامز فى نفسه: بول میں کسی خیال کا آنا۔</p> <p>الجَلْجَل: گھوٹھرو۔ واحد (جَلْجَل) جَلْجَل النفس: وہ خیالات جو دل میں آئیں۔ تم کہتے ہو "بئسئنه جَلْجَل نفسی" میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔</p> <p>الجَلْجَل و العَجَلْجَل: پھرتلا۔ چابک دست۔</p> <p>الجَلْجَلَةُ: م۔ بادل کی گرج۔ کھنٹی کی آواز۔</p> <p>الجَلْجَلَان: دھینے کے دانے۔ تل کا دانہ۔</p> <p>جَلْحَلَان الشئ: بڑی چیز۔ جَلْحَلَان القلب: سویراء قلب۔ کہتے ہیں۔ "مخرج من جَلْحَلَان القلب الی قمع الاذن" یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔</p> <p>المَجْلَجَل: بڑا سردار یا وہ شخص جس کی آواز دور تک جائے۔ گرجنے والا بادل۔ بے عیب طرف۔ و عددٌ مُجْلَجَل: بڑی تعداد۔</p> <p>جَلْحَتِ (ف) جَلْحًا: الماشية الشجر: اوپر سے کھنے کو چر جانا۔</p> <p>جَلْحِ (س) جَلْحًا: سر کے دونوں جانب سے گرے ہوئے بالوں والا ہونا۔ صفت (أَجْلَح) ج</p>
--	--	--

<p>جَلْفٌ - الويل امو الهمم - تباہ کرتا۔ تَجَلَّفَ: لاغر و کمزور ہوتا۔ اجْتَلَفَ: بڑے سے اگھیرنا۔ ہاں الدہر: تباہ کرتا۔</p>	<p>الجلسة: نشست بیٹھنے والا۔ المجلس: بیٹھنے کی جگہ۔ بیٹھنے والے لوگ پکری۔ المجلسة: بیٹھنے کی جگہ۔</p>	<p>ساتھ چلنا۔ المطر: زمانہ بارش کے اختتام کے بعد تک برساتارہا۔ الجلد: چھپو بندر۔ ج مناجد۔ من غیر لفظہا۔</p>
<p>الجلف: اکڑ اور اجڑ۔ یوقف۔ خالی مٹکا۔ برتن۔ بغیر سر کے دھڑ۔ روٹی کا کنارہ۔ ج اجلاف و جلوب۔</p>	<p>جَلَفَ (ض) جَلْفًا: قسم کھانا اور جھوٹ بولنا۔ الراس: مونڈنا۔ السيف: سونٹا۔ الجلد: کھال اتارنا۔ سلحہ: بیٹھ کرنا۔</p>	<p>الجلدئ والجلادئ: گرجا کا خادم۔ راہب۔ کارنگر۔ ج جلاذئ۔ الجلذئ و العجلوذ: قوی موٹا اونٹ۔</p>
<p>الجلیف: کھرچا ہوا۔ اکڑ اور اجڑ۔ ظالم۔ مؤنث جلیفہ: کہا جاتا ہے "أصابتهنم جلیفہ عظمیة" ان کو سخت قحط سالی لائن ہوئی جس نے ان کے بال کو تباہ کر دیا۔ ج جلاذئف و جلف و جلف: الجلاذئف: طغیانیاں۔ الجلیفہ: چڑے وغیرہ کا تراش۔ الجلیفہ: خشک روٹی کا کٹورا۔ ج جلف۔ الجلیفہ والجلیفہ: من القلم: زبان قلم۔ الجلاف: گارا۔ کچھڑ۔ الجلائی: بڑا ڈول۔</p>	<p>إنجلف: البعیر: تیز چلنا۔ الشئ: پرانا ہونا۔ گھس ہونا۔ جالبظہ: باہم کر کرنا۔ اجتنلفہ: ایک لیتا۔ ماہی الاناء: سب پی جاتا۔</p>	<p>جلز (ض) جلزًا: الراس: پٹی باندھنا۔ الشئ الی الشئ: ملنا () و جلز و جلز السکین: دست باندھنا۔ و جلز الزجل: تیز جانا۔ تجلز الامر: آمادہ ہونا۔ مستعد ہونا۔</p>
<p>المجلف: وہ شخص جس کا مال قحط سالی میں تباہ ہوا ہو۔ وہ چیز جس کا کچھ حصہ باقی ہو۔ جلفظ و جلفظ: السفینة: کشتی کے درز بند کرنا۔ عوام قلفظ: استعمال کرتے ہیں۔ الجلفاظ و الجلفاظ: کشتی کے درز بند کرنے والا۔</p>	<p>الجلفطة: خون رستی یا وہی کی تھوڑی مقدار۔ امرأة جلفوظ: بے حیا عورت۔ جلف (س) جلفًا: لیوں کے نہ نلنے کی وجہ سے کھلے ہوئے دانتوں والا ہونا۔ صفت 'جلف و آجلف' مؤنث جلیفہ جلفہ۔</p>	<p>جلوز۔ بین یدی الامیر: امیر کے سامنے آنے جانے میں چستی دکھانا۔ جلز السنان: ہمالے کے نیچے کا گول حلقہ۔ الجلاز: کوڑے کے کنارے پر بندھا ہوا قسم۔ ج جلازیز۔</p>
<p>المجلف: وہ شخص جس کا مال قحط سالی میں تباہ ہوا ہو۔ وہ چیز جس کا کچھ حصہ باقی ہو۔ جلفظ و جلفظ: السفینة: کشتی کے درز بند کرنا۔ عوام قلفظ: استعمال کرتے ہیں۔ الجلفاظ و الجلفاظ: کشتی کے درز بند کرنے والا۔</p>	<p>جلفت (ف) جلفًا: المرأة: بے حیا ہونا۔ صفت (جالیع و جالیعة)۔ جالیع القوم: بھڑکا کرنا۔ قش باتیں کرنا۔ إنجلف الشئ: کھانا۔ الجالیع: کھلے ہوئے چہرے والی عورت بے حیا۔</p>	<p>الجلوزة: آمدورفت میں چستی۔ الجلواز: سپاہی۔ بادشاہ کے سامنے تیز تیز چلنے والا۔ ج جلاوزة۔ الجلوز: بڑے جسم والا بار۔ چلوڑہ۔ الجلوز: مضبوط۔ کہا جاتا ہے "فلان مجلوز العمل" فلاں کام میں مشاق ہے۔</p>
<p>جلفی (ض) جلفًا: الراس: مونڈنا۔ القوم بالمنجیق: آکر سب اندازے دشمن پر حملہ کرنا۔ تجلفی: بیٹھنے میں دانت نکالنا۔ الجلافة: گوشت کا کٹورا۔ کہا جاتا ہے "رجل جلافة" دبا مر۔</p>	<p>الجلفة: بیٹھنے کے وقت دانت کھلنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "فلان لطیف الجلفة"۔ الجلفم: بے حیا۔ اجلف و اجلف: بستر روزا ہونا۔ الجلفد: تخت و مضبوط۔ الجلاجد: من الابل: مضبوط اونٹ۔ ج جلاجد۔</p>	<p>جلس (ض) جلوسًا و مجلسًا: بیٹھنا۔ صفت جالس ج جلس و جلاس۔ جالسة و جالسة: ساتھ بیٹھنا۔ جالسة و آجالسة: ٹھکانا۔ تجالسوا: فی المحاکم: عدالتوں میں بیٹھنا اور بحث کرنا۔</p>
<p>العبوالق و العبوالق: اڈن یا بادل کی کون۔ ج عبوالق (مغرب)۔ جلیق و جلیق: دشمن یا اس کے حوالی کے مرغزار۔</p>	<p>جلفہ (ف) جلفًا: بالسیف: کھڑے کرنا۔ جالیع: کھوار سے مقابلہ کرنا۔ جلفہ (ن) جلفًا: کھرچنا۔ کہا جاتا ہے "جلف الطین عن الحجر" اس نے مٹی کو پتھر سے کھرچ دیا۔ الظفر: بڑے اگھیرنا۔ ہاں بالسیف: گوشت میں سے کھاراک لیتا۔ ہاں الدہر: تباہ کرنا۔</p>	<p>إمتجلسہ: بیٹھنے کو کہنا۔ الجلسة: الجلسوں کا اسم مرہ۔ ایک بیٹھک۔ الجلسة: بیٹھنے والے کی نشست۔ الجلس: بڑی اور سخت چٹان۔ بلند زمین جمل جلس: مضبوط اونٹ۔ ناقہ جلس: مضبوط اونٹنی۔ شہد جلس: گاڑھا شہد۔</p>
<p>الجلیکی و الجلیکی: ایک قسم کی پھلی مار ماہی کے مشابہ۔ جلمہ (ض) جلمًا و اجتملمہ: کانٹا۔ الصوف: کترنا۔ الجوز: ہڈیوں پر سے گوشت اتارنا۔</p>	<p>جلف (س) جلفًا و جلافة: اُجڈ ہونا۔</p>	<p>الجلساء و الجلاس: (الجلس والجلس) ہم نشین۔</p>

الجَلَمُ والجَلَمَانُ: اُون کترنے کی قبچی
جَلَمَانُ پر تشبیہ اور مفرد دونوں کا اعراب آتا
ہے۔ جیسے شَرِيْثُ الجَلَمِيْنَ وشریت
الجَلَمَانُ۔
الجَلَمُ: بکرا۔ بکری کا بچہ۔ ج جَلَامٌ۔ الجَلَمُ:
ایک قسم کا شکاری پرندہ۔
الجَلَمَةُ والجَلَمَةُ والجَلَمَةُ: سب پوری
چیز۔ تم کہتے ہو ”اخذت الشئ بجلمته“ میں
نے پوری چیز لی۔ ”وبذہ جَلَمَةُ الجوزور“
یہ ذبح کیے ہوئے جانور کا سارا گوشت ہے۔
الجَلَمَةُ: کتری ہوتی اُون۔
الجَلَمُ: چودھویں رات کا چاند۔
الجَلَمُدُ: ج جَلَاوِدُ (الجلمود)۔ ج۔
جلامید: پتھر چٹان۔ رجل جَلَمُدٌ: قوی
مضبوط مرد۔ ارض جَلَمُدَةٌ: پتھر ملی زمین
”رضح اوبص جَلَمُدُه“ اس شخص کے حق
میں بولتے ہیں جو بکل میں مشہور ہو اور کچھ دے
بھاگے۔ الجَلَمُدُو الجَلَمُدُو: اونٹوں کا بڑا گنہ۔
جَلَمَقُ القوس: مکان پر تانت چڑھانا۔
الجَلَمَاقُ: پمچا جس سے تانت بنائی جاتی
ہے۔
الجَلَمَقُ: قبان جَلَامِقُ۔
الجَلَمَاقُ: گل اتار۔
الجَلَمَجِيْنُ: گل قد۔
جَلَهٌ (ف) جَلَهًا الشئُ: ظاہر کرنا۔ دُور کرنا
_____ المرءُ: باز رکھنا _____ العمامة: پیشانی
سے بلند کرنا۔
جَلَهٌ (س) جَلَهًا: سر کے اگلے حصہ کے بال کا
اڑجانا۔ صفت (أَجَلَهٌ)
الجَلَهَةُ: من الوادی: وادی کا کنارہ۔ وادی
کے سامنے والی جہت۔ ج جَلَاهُ۔
بيت (مَجَلُوهُ) بغیر دروازہ اور پردہ کے مکان۔
الجَلَاهِقُ: قَلَهٌ۔ گولی۔ اور بقول بعض غلیل
(فارسیہ)
الجَلْمُومُ: بڑا چوہا۔
الجَلْمُومُ: بڑی جماعت۔
جَلَأٌ (ن) جَلَاءٌ: ظاہر ہونا۔ واضح ہونا
_____ عن بلدہ و منہ: لکنا _____ الشئُ: بلند ہونا۔

جَلَأٌ (ن) جَلُوًا و جَلَاءٌ۔ الامرُ: واضح کرنا۔
ظاہر کرنا۔ الرجلُ عن بلدہ: جلا وطن کرنا
_____ النحلُ: شہ نکلانے کے لیے دھواں کرنا
_____ عنہ الہَمُّ: زائل کرنا۔ دُور کرنا _____ السیفُ:
صیقل کرنا _____ البصرُ بالکحل: روشن کرنا۔
(جَلوةٌ بتثلیث الجیم و جَلَاءٌ و اجْتَلَى)
العروسُ علی زوجها: بناؤ سنگار کر کے پیش
کرنا۔
جَلَأٌ (ن) و جَلَى: الزوجُ عروسہ ہدیہ:
شب زفاف میں ہدیہ دینا۔
جَلَى (س) جَلَى: سر کے اگلے حصہ کے بالوں
کا اڑجانا۔ صفت (أَجَلَى) مَوْنُثُ جَلُوًا۔ جیبہ۔
جَلُوًا: کشادہ پیشانی۔
جَلَى۔ فلاناً و عن فلان الامرُ: کسی کی
صیبت کو دُور کرنا۔ جَلَى بنظرہ: نظر ڈالنا۔ کہا
جاتا ہے۔ ”جلی التباؤی“ بازے سر اٹھا کر شکار کو
دیکھا _____ عن ضمیرہ: ہائی الضمیر ظاہر کرنا۔
جَلَى۔ فلاناً ہامر: دوسرے کے سامنے ظاہر
کرنا۔ کلم کھلا کرنا۔
أَجَلَى عن بلدہ: لکنا۔ أَجَلَاهُ عن بلدہ: نکانا
_____ الزجلُ منزله: خوف کی وجہ سے چھوڑ دینا۔
تم کہتے ہو ”أَجَلُوا عن القتل“ مقتول کو چھوڑ کر
بھاگ گئے۔
تَجَلَى تَجَلِيًا۔ الشئُ: اچھی طرح ظاہر ہونا
_____ المكانُ: چڑھنا _____ الشئُ: گردن بلند
کر کے دیکھنا۔
تَجَلَى القومُ: ہر ایک کا حال دوسرے پر ظاہر
ہونا۔
الجَلَى: ظاہر ہونا۔ تم کہتے ہو ”إنجلی الہمُّ
عن قلبی“ غم میرے دل سے دُور ہو گیا۔
اجْتَلَى۔ الشئُ: دیکھنا _____ العمامة: عمامہ کو
پیشانی سے بلند کرنا _____ النحلُ: شہ نکلانے کے
لیے دھواں کرنا۔
استجلی۔ الشئُ: ظاہر کرنے کو کہنا
_____ العروسُ: آراستہ ہو کر خاند کے سامنے ظاہر
ہونا۔
اجْتَلَى اجْتِلَاءً۔ الرجلُ: ایک شہر سے
دوسرے شہر کو جانا۔

<p>عمرت۔ الجَمَّاءُ: بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔ "امراً أجماءُ العظامُ" بنت فریہ عورت۔ ارض جماءُ: ہموار زمین۔ کہتے ہیں جَاءُ وَاَجْمَاءُ الغفیر وَجَمَاءُ الغفیرة وَالجَمَاءُ الغفیرة وَجَمَاءُ غفیرة وَجَمَاءُ الغفیر الجَمَّاءُ یعنی سب لوگ آئے۔ المَجْمَمُ وَالجَمَمُ: سینہ۔ کہا جاتا ہے "هو زحْبُ الجَمَمِ" وہ فراخ دل ہے۔ الجَمَّانِی وَالْمَجْمَمُ: وہ شخص جس کے سر میں بال بست ہوں۔ الجَمْمِ: باگلی۔ جَمِی (س) جَمًّا عَلَیْهِ: غمبناک ہونا۔ تَجَمَّأَ لَی لَبَابَہُ: پلٹنا القومُ: اکٹھا ہونا۔ الجَمَّاءُ وَالجَمَّاءُ: شخص۔ جَمَّجَمَ جَمَّجَمَةً وَتَجَمَّجَمَ: الکلامُ: فیر واضح گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ تَجَمَّجَمَ عَنِ الامر: یعنی پیچھے ہٹ گیا۔ "وَجَمَّجَمَ شِیْطَانِی صَدْرُہُ" اس نے اپنے سینہ میں پوشیدہ رکھا۔ الجَمَّجَمَةُ: کھوپڑی۔ لکڑی کا پیالہ۔ کتوں جو زمین شور میں کودا جاتے۔ ج جَمَّجَمَ: الجَمَّاجِمُ: سردار لوگ۔ جَمَّجَحَ (ف) جَمَّجَحًا وَجَمَّجَحًا وَجَمَّجَحًا: الفرس: سرکشی کرنا۔ سوار کے قابو میں نہ آنا۔ صفت مذکر مؤنث (جامیح) ج جَمَّجَحَ اور اسی سے ہے "جَمَّجَحَتِ المَراةُ وَزَوَّجَہَا" جبکہ شوہر کو چھوڑے اور اپنے نیک چل جانے۔ وَجَمَّجَحَ الزَّجَلُ: خود سر ہونا۔ خود رائے ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ "جَمَّجَحَتِ المَفاذَةُ بِالقومِ" بیابان نے قوم کو ہلاک کر دیا "جَمَّجَحَ بفلانٍ مُراذَہُ" یعنی اس نے اپنی مراد کو نہیں پایا۔ الجَمَّجَحُ: جنگ کے ٹکست خوردہ لوگ۔ بے چل کا تیمر ج جَمَّجَحَ و جَمَّجَحَ۔ فرس (جَمَّجَحُ) سرکش گھوڑا۔ وَجَمَّجَحُ جَمَّجَحُ: خود سر مرد۔ جَمَّجَحَ (ن) جَمَّجَحًا: تکبر کرنا۔ صفت (جامیح) ج جَمَّجَحُ و (جَمَّجَحُ و جَمَّجَحُ) جَمَّجَحًا: فخر کرنے میں متقابل کرنا۔ جَمَّدَ (ن) جَمَّدًا وَجَمَّدًا: الماءُ: جم جانا</p>	<p>دَمٌّ: خشک ہونا۔ جَمَّدَتْ يَدُہُ: بخیل ہونا۔ عَشِيَّةُ: آسو کا بڑ ہو جانا۔ صفت (جَمَّادٌ وَجَمَّوْدٌ وَجَمَّيْدٌ) العین مؤنث (جَمَّوْدٌ) اَجْمَدٌ: بخیل ہونا۔ بے فیض ہونا۔ لہ جولای میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے "اَجْمَدُ حَقَّةٌ عَلَیْہِ" اس نے اپنا حق اس پر ثابت کیا۔ اَجْمَدٌ وَجَمَّدٌ: بچانا۔ جَمَّادَةٌ جَمَّادَةٌ: بڑی ہونا۔ کہا جاتا ہے "هو جَمَّادِی" اس کے گھر کی دیوار میرے گھر سے متصل ہے۔ الجَمَّادُ وَالجَمَّادُ: جما ہوا پانی۔ برف (جَمَّادٌ وَالجَمَّادُ وَالجَمَّادُ) سخت اور بلند زمین۔ الجَمَّادُ جَمَّادٌ: زمین۔ مَنَّةٌ جَمَّادٌ: بے بارش کا سال۔ اَرْضُ جَمَّادٌ: زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو۔ نَاقَةٌ جَمَّادٌ: ست رفتار اونٹنی۔ کہا جاتا ہے "فلانٌ جَمَّادٌ الکَفِّ" ظلال بخیل ہے "وَالجَمَّادُ جَمَّادَاتُ" (والجَمَّادِ) ج جَمَّادٌ: وہ چیز جس میں زندگی نہ ہو جیسے پتھر وغیرہ وَالفِئَلُ الجَمَّادِ: وہ فعل جس کی گردان نہ آئی ہو جیسے لَيْسَ وَعَسَى وَجَمَّادٌ: یعنی بے کردہ بخیل کے لیے بد دعا ہے یعنی ہمیشہ اسی حال پر رہے۔ جَمَّادِی: الاولى وَالآخرة: ہجری سال کا پانچواں و چھٹا سینہ۔ ج جَمَّادِیات: عین جَمَّادِی: وہ آگہ جس سے آسو نکلتے ہی نہ ہوں۔ الجَمَّادُ: برف پینچنے والا۔ سَيْفٌ جَمَّادٌ: شمشیر بران۔ الْمُجَمَّدُ: بنت بخیل۔ جوئے کا امین۔ قوم کا امین۔ جَمَّزَ (ض) جَمَّزًا وَجَمَّزَ وَاجَمَّزَ وَاسْتَجَمَّزَ: القوم علی امر: اکٹھا ہونا۔ جموہ: چنگاری رہنا۔ جمر القوم علی امر: جمع کرنا۔ جَمَّزَ النخلۃ: درخت خزا کا جَمَّار کانا (دیکھو جَمَّارٌ) _____ اللحم: انگارے پر رکھنا _____ الامر القوم: اکٹھے ہونے پر مجبور</p>	<p>(_____ وَاجَمَّ وَأَجَمَّ) الفرس: کوئل چھوڑ رہا۔ جَمَّمَ: المکیان: چوٹی تک بھرا (_____ وَتَجَمَّم) النبت: گھبنا ہونا۔ بکھرت پڑھنا۔ صفت (جَمَّوْمٌ) جَمَّاءُ۔ أَجَمَّةٌ: الامز: قریب ہونا _____ الفرائق: وقت آنا _____ الماءُ: جمع ہونے رہا۔ الفرس: کوئل چھوڑ رہا۔ اور اسی سے ہے۔ "أَجَمَّجَمَ" نفسک یومًا و یومین "اپنے آپ کو دو ایک روز آرام بخاؤ اور کام نہ کرو۔ اسْتَجَمَّ: الماءُ: بکھرت جمع ہونا _____ الارضُ: اُتانا _____ البز: بھرجانے کے لیے چھوڑ رہا۔ اور کہا جاتا ہے "إِنِّی لَأَسْتَجِمُّ قَلْبِی بِشئٍ مِنَ اللُّہُو" میں اپنے دل کو کھیل کر دے بسلاؤں گا۔ الجَمِّمُ: نہ۔ بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے "جَاوُوا جَمًّا غفیراً وَجَمَّ الغفیر وَجَمَّ الغفیرة۔ وَالجَمِّمُ الغفیرة" یعنی پوری جماعت۔ شریف و روئل سبھی بکھرت آئے۔ الجَمِّمُ مِنَ الماءِ: پانی کا بڑا حصہ۔ ج جَمَّامٌ وَجَمَّامٌ۔ الجَمَّامُ: بتلیل الجَمِّمِ وَالجَمَّامُ: وہ حصہ جو پانے کے بھرنے کے بعد سرے پر ہو۔ کہا جاتا ہے "جَمَّامُ المَقْدِحِ ماءٌ" یعنی پانی سے بھرا ہوا پیالہ۔ الجَمِّمُ: بڑی تعداد۔ الجَمَّامُ: ٹھکن کے بعد گھوڑے کا آرام لینا۔ الجَمَّامَةُ: بنت پانی والا کتوں۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "استقی من جَمَّامَةِ البئر" زیادہ پانی والے کون میں سے پانی نکال۔ ج جَمَّام۔ الجَمَّامَةُ وَالجَمَّامَةُ: اکثر حصہ۔ کہا جاتا ہے "جَاوِ اِھی جَمَّامَةً کثیرة" وہ لوگ بڑی تعداد میں آئے۔ وَالجَمَّامَةُ: سر کے بالوں کی کثرت۔ لوست پیچے تک کے بال۔ ج جَمَّام۔ الجَمِّمُ: شیطان۔ الجَمِّمُ: ایک قسم کی پتلی۔ الجَمَّامُ وَالجَمَّامُ: ابالب بھرا ہوا پیالہ۔ الأَجَمَّةُ: بے سینک والا میزھا۔ مؤنث جَمَّاءُ ج جَمَّامٌ بھیریزہ کے لئے والا۔ الحصن الاجمَّ: بھیر نگرہ والا قلعہ۔ بیان الاجمَّ: بھیر نگرہ والی</p>
--	---	--

المُخْتَمِرَات: زمانہ جاہلیت کے طبقہ ثانیہ کے سات قصیدے جن کا مرتبہ سبع معلقات کے بعد ہے۔

الجَمَا وَالْجَمَا: اجمرا ہوا پتھر۔ جسم کا بھرا ہوا حصہ جیسے پستان۔

جَمِي (ض) حَفِيْنَا المَاءُ: بہت ہونا۔

تَجَمَّى القَوْمُ: اکٹھا ہوا۔

جَمَاءٌ وَجَمَاءٌ وَجَمَاءَةٌ: الشَّيْءُ: چیز کی دہاڑت۔

جَنَّ (ن) جَنَّوْا جَنَّوْنَا: دیوانہ ہونا۔ پاگل ہونا۔ صفت (مخفون) جن مخالفین۔ عنہ: چھپنا

الارض: پھول آگاہا۔ النسب: لہا ہوا اور گتھ جانا۔ الذہاب: بہت بھینٹانا۔ کہا جاتا ہے "جَنَّ الذَّهَابُ بِالرَّوْحِ" ہریالی کو دیکھ کر کھیاں بھینٹا رہتی ہیں۔

أَجَنَّ: عنہ: چھپنا۔ أَجَنَّهُ اللَّيْلُ: چھپانا۔ ذُحَاتٍ لَيْلًا: أَجَنَّ المَيِّتُ: کفن دینا، دفن کرنا۔ (أَجَنَّهُ وَجَنَّهُ) دیوانہ بنانا۔

تَجَنَّنَ وَاسْتَجَنَّنَ: دیوانہ ہونا۔

تَجَنَّانٌ وَتَجَنَّانٌ: بخلف دیوانہ بننا۔

إِجْتَنَّ: الشَّيْءُ: چھپانا () وَاسْتَجَنَّ () چھپنا۔ وَاسْتَجَنَّ فَلَانَا: کسی کو طرف کی طرف بلانا۔ (مَا أَجَنَّهُ) وہ کتنا جتنوں ہے فعل تعجب ہے اور شاذ ہے اس لیے کہ یہ مفعول کے معنی میں ہے اور فعل تعجب فاعلی معنی میں ہوتا ہے۔

الجن والجنَّة: جن۔ پری۔ دیو۔ واحد (جن) مؤنث (جنَّة) الجنَّة: دیوانگی۔ الجنَّة من والجن من الشباب: آغاز جوانی۔ من التبت: کلی۔ پھول۔ جن الليل: رات کی تاریکی۔ جن الناس: لوگوں کی بڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے "لَا جَنَّ بِهَذَا الامر" یعنی اس معاملہ میں کوئی پریشانی نہیں۔

الجان (فا) جن کا اسم جمع۔ جن۔ الجنان: ایک قسم کا سفید سانپ۔

الجنَّة: بلغ بہشت۔ جن جنان و جنات۔

الجنَّة: پردہ جن جنن () وَالْمَجَنَّنُ وَالْمَجَنَّنَةُ: بھیاڑوں سے بچاؤ کی چیز۔ ڈھال۔ جن مَجَنَّانٌ اور کہتے ہیں "قَلْبٌ مَجَنَّحٌ" یعنی وہ بے

کا دودھ یا۔ جمل اليهود: گرگت۔ جمل الماء: ایک آبی پرندہ جس کی چوڑھی لمبی ہوتی ہے۔ جمل البحر: ویل چھلی۔ کہا جاتا ہے "اتخذ الليل جَمَلًا" وہ ساری رات چلا۔

الجَمَلُ وَالْجَمَلُ وَالْجَمَلُ وَالْجَمَلُ وَالْجَمَلُ: موی رسی۔ حساب الجَمَلُ: حروف ابجد کا حساب جو تاریخ ولادت یا وفات وغیرہ نکالنے میں کام آتا ہے اور اس کو حساب الابجدیہ بھی کہتے ہیں۔

الجمال (فا) اونٹوں کا ریوڑ جمع چرواہوں کے۔ اونٹوں کا مالک۔

الجَمَلُ: اونٹوں کا مالک یا ساریا۔ جن جَمَلَانَةٌ: الجَمَلُ: خوبصورت۔ یا زیادہ خوبصورت۔

الجَمَلُ (مص) خوبصورتی۔ کہتے ہیں "جمالک ان لا تفعل کذا" تمہارے لیے مناسب ہے تم ایسا نہ کرو۔

الجَمَلَةُ: مجموعة: جو سند اور سند الیہ سے مرکب ہو۔ جن جَمَلٌ۔

الجَمَلُ: لوگوں کی جماعت۔

الجَمَلُ: احسان۔ نیکی۔ کھلی ہوئی چربی۔

الجَمَلَانَةُ: خوبصورت عورت (اس لفظ کے لیے أَفْعَلُ کا سینہ نہیں جیسے دَيْمَةٌ هَظْلَانَةٌ میں أَهْظَلُ کا سینہ نہیں)

الجَمَلُ: بلبل۔ جن جَمَلَانٌ۔

الجَمَلَانَةُ: الجَمَلُ: بلبل۔

الجَمَانُ: موی۔ واحد جَمَامَانَةٌ۔

جَمَهْرٌ جَمَهْرَةٌ: الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ اکثر حصہ لینا۔ عَلِيَّةُ الخَبِيرِ: تھوڑی سے خریدنا اور خرد کو چھپا لینا۔ وَتَجَمَهْرُ القَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَجَمَهْرُ عَلَيْنَا" اس نے ہمارے اوتار دست درازی کی اور قہارت کی۔

الجَمَهْرُ: ریت کا تودہ۔ قوم کے بڑے اور اشراف لوگ۔ قوم کی جماعت۔ ہر چیز کا بڑا حصہ۔ جن جَمَاهِيرٌ۔

الجَمَهْرِيُّ: جمہوری کی جانب منسوب نشہ آور شراب۔

الجَمَهْرِيَّةُ: رہنمائی۔ وہ سلطنت یا قوم جو اپنا صدر ایک عجمین عدت کے لیے بناتی ہے۔

گئی۔ ارض (مختصة) وجميعه (مختصة) وہ زمین جس میں قافلہ اکٹھا ہو جائے اور بھٹکنے کے خوف سے علیحدہ نہ ہو۔

امور (مختص) قطعی معاملہ۔

المختص: ہر کتاب جس میں مختلف چیزیں جمع کی گئی ہوں۔ جیسے اشعار قصص وغیرہ۔ جن مجامیع اور نحو یوں کے نزدیک جمع پر اطلاق کیا جاتا ہے۔

الجوامیکية: جن جامکیات و (الجوامیک) جن جو امیک: شامی لوگوں کی بیویوں کی تنخواہ۔

جمل (ن) جَمَلًا: الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ () واجتمعت (الشحم) پگھلانا۔

جَمَلٌ (ک) جَمَلًا: خوبصورت ہونا۔ خوش خلق ہونا۔ صفت (جمیل) مؤنث (جميلة)

جَمَلَةٌ: خوبصورت بنانا۔ جَمَلُ الشَّحْمِ: پگھلانا۔ الخيش: دیر تک روک رکھنا۔

جَمَلُهُ: اچھا معاملہ کرنا۔ تواضع سرزدی کرنا۔

أَجَمَلُ: الشَّيْءُ: جمع کرنا یا مجمل ذکر کرنا۔ کہا جاتا ہے "اجمل الحساب والكلام ثم فضله ويسته" اس نے حساب اور کلام کو مجمل کہا پھر اس کی تفصیل کی۔ الشَّيْءُ: خوبصورت بنانا۔ زیادہ کرنا۔ الشَّحْمُ: پگھلانا۔ فی العمل: عمر کے کام کرنا۔ فی الطلب: تلاش میں استعمال اختیار کرنا۔ القَوْمُ: لوگوں کے پاس اونٹوں کی کثرت ہونا۔

تَجَمَّلُ: آراستہ ہونا۔ خوبصورت ہونا۔ مصائب زمانہ پر صبر کرنا اور زنت ظاہر نہ ہونے دینا۔ حیاء کی وجہ سے مصیبت میں کھلی ہوئی چربی کھانا۔ فی الکلام: لطف و مہربانی سے باتیں کرنا۔

الْمَجْمَلُ: البعير: اونٹ کا جوان ہونا۔ الشَّيْءُ: خوبصورت کھانا۔

الجَمَلُ: اونٹ۔ جن جمال و اجمال و جَمَلٌ وَجَمَالَةٌ: بتثلیث الجیم و جن جمالات: بتثلیث الجیم وجمال۔

اور جمل کا اطلاق اونٹنی پر شاذ ہے۔ کہا جاتا ہے۔ "شربت لبن جملی" میں نے اپنی اونٹنی

<p>(الأَجْنَبُ وَالْأَجْنَبِيُّ) مسافر۔ المُجْتَنِبُ: بخت خیر ہوا شر۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ عِنْدَنَا خَيْرًا مَعْتَبِرًا وَشَرًّا مَعْتَبِرًا" ہمارے نزدیک بخت خیر اور بخت شر ہے۔ المُجْتَنِبُ: پردہ ڈھال۔ المُجْتَنِبَةُ: فوج کا ہراول۔ المُجْتَنِبَتَانِ: من العیش: فوج کا یمنہ ویمبرہ۔</p>	<p>الجَنْبُ: سہ۔ ج أجناب و جنب: پہلو۔ جنت۔ جانب۔ تم کہتے ہو "قَعَدْتُ إِلَى جَنْبِ فُلَانٍ وَالْيَ جَانِبِهِ وَجَنَابِهِ" میں فلاں کے پہلو میں یا اس کی جانب میں بیٹھا۔ جاز الجنب: ہمسایہ جو پہلوی میں ہو۔ ذات الجنب: نمونہ۔ الجنب: ہمہ۔ کچھ لنگڑا ہیں۔ الجنب: غیر فرماں بردار۔ اجنبی۔ مسافر۔ دور ٹاپاک (واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے مستعمل ہے) الجار الجنب: ہمسایہ جو غیر قوم کا (ہو)</p>	<p>حیا و خورائے ہو گیا۔ "وَقَلْبٌ لَهُ ظَهْرُ الْمَجْنُونِ" یعنی وہ اس کی دوستی سے دشمنی کی طرف پلٹ گیا۔ الجَنَنُ: قبر میت۔ کفن۔ ج أجنان۔ الجَنَانُ وَالْجَنَانَةُ: ڈھال۔ الجَنَانُ: دل۔ رات یا اس کی شدت تاریکی۔ پوشیدہ معاملہ۔ من کل شیء: ہر چیز کا جوف۔ ج أجنان۔ الجُنُونُ وَالْجُنُنُ وَالْجُنَّةُ: دیوانگی۔ الجَنِينُ: ہر پوشیدہ چیز۔ قبر مدفون۔ پتھر جو ابھی رحم مادر میں ہو۔ ج أجنۃ و أجنۃ۔ الجَنَّةُ: جنوں والی زمین۔ دیوانگی۔ کہا جاتا ہے "بِهَ الْجَنَّةِ" وہ دیوانہ ہے۔ چھپنے کی جگہ۔ جَنِينٌ (س) جَنَانٌ: کبیرا ہونا۔ صفت (أجناناً) مؤنث جَنَانًا)</p>
<p>الجَنْبِلُ: انار کی کٹی۔ غچہ یا غلغلتہ۔ الجَنْبِلُ: کبڑی کا پھال۔ تَجَنَّبْتُ: الرَّجُلُ: غیر قوم میں سے ہونے کا دعوئی کرنا۔ عَلَيَّهِ: نجات کرنا۔ مریانی کرنا _____ الطائرُ: پر پھیلا کر بیٹنا۔ الجَنْبِيُّ: عمدہ لوہا۔ گوار۔ ج جنبيۃ: زرہ ساز۔</p>	<p>الجَنْبِ: گوشہ نشین۔ اجنبی۔ مسافر۔ بھیڑیا رجل جَنْبٍ: مسلمانوں کے ڈر سے راستہ میں کترا کر چلنے والا۔ الجَنْبِيَّةُ: گوشہ نشینی۔ جانب۔ الجَنْبِيَّةُ: من النبات: ہر وہ درخت سے چھوٹا اور بیل سے بڑا ہو ج جنب۔ جَنْبًا: الانف و جَنْبَتَاهُ و جَنْبَاتُهَا: ناک کے دونوں طرف۔ الجَنْبِيَّةُ: وہ چیز جس سے پرہیز کیا جائے۔ الجَنْبَابُ: نا۔ غیر فرماں بردار۔ مسافر۔ گھوڑا۔ جس کے دونوں قدم کا فاصلہ دور ہو ج جَنْبَابُ: انسان کا پہلو۔ گوشہ۔ جانب۔ ج جوانب۔ کہا جاتا ہے "ہو لَيْنُ الْجَنْبَابِ" وہ معیشت کے لحاظ سے نرم ہے۔ "هُوَ رَقِيقُ الْجَنْبَابِ" وہ لطیف ہے۔ الجَنْبَابُ: مہن۔ گوشہ۔ قوم کے حملہ سے جو قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "أَخْصَبَ جَنْبَابُ الْقَوْمِ" قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔ و "فُلَانٌ خَصِيْبُ الْجَنْبَابِ أَوْ جَدِيْبِهِ" فلاں سرسبز ہے یا قطرہ زدہ ہے۔ ج أجنبيۃ۔</p>	<p>جَنَانٌ (ف) جُنُونٌ أَوْ أَجْنَانٌ أَجْنَانٌ وَ جَنَانًا مَجَانَانًا أَوْ اجْتِنَانًا وَ جَنَانًا تَجَانَانًا عَلَيَّهِ: کسی کو مارے بچانے کے لیے اس پر چھایا جانا۔ جَنْبِيَّةُ (ن) جَنْبِيًّا: دفع کرنا۔ علیحدہ کرنا۔ دور کرنا۔ پہلو پر مارنا۔ تم کہتے ہو "ضَرِبَهُ فَجَنْبِيَّةً" اس نے اسے مارا اور پہلو پر مارا" وَ جَنْبِيَّةُ الشَّيْءِ: کسی سے کوئی چیز دور کرنا (ن) جَنْبِيًّا و مَجْتَنِبًا: البعيرُ: کوئل یا کتا۔ صفت مفعولی (جَنْبِيَّتٌ وَ مَجْتَنِبٌ وَ مَجْتَنِبَةٌ) مؤنث جَنْبِيَّةُ۔ کہا جاتا ہے "فَرَسٌ جَنْبِيْبٌ وَ خَيْلٌ جَنْبَابُ"۔ جُنُوْبًا: الرِيْحُ: جنوبی ہوا چلانا۔ جَنْبٍ (ن) جَنْبِيًّا وَ جَنْبٍ (س) جَنْبًا: الیہ: ماکل ہونا۔ مشتاق مضطرب ہونا۔ جَنْبٍ (ن س ض) جَنْبَانَةً: الرَّجُلُ: ٹپاک ہونا۔</p>
<p>جَنْحٌ (ف ن ض) جُنْحٌ حَا: الیہ: ماکل ہونا _____ السَّفِيْنَةُ: کہ پانی میں پہنچ کر زمین سے لگ جانا۔ _____ اللیلُ: آنا (ض) جَنْحًا الطائرُ: بازو پر مارنا۔ جَنْحَةٌ: بازو بنانا۔ _____ الرجلُ: گناہ کی نسبت کرنا۔</p>	<p>الجَنْحُ: گوشہ۔ جانب۔ ج جوانب۔ کہا جاتا ہے "ہو لَيْنُ الْجَنْبَابِ" وہ معیشت کے لحاظ سے نرم ہے۔ "هُوَ رَقِيقُ الْجَنْبَابِ" وہ لطیف ہے۔ الجَنْحَابُ: مہن۔ گوشہ۔ قوم کے حملہ سے جو قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "أَخْصَبَ جَنْبَابُ الْقَوْمِ" قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔ و "فُلَانٌ خَصِيْبُ الْجَنْبَابِ أَوْ جَدِيْبِهِ" فلاں سرسبز ہے یا قطرہ زدہ ہے۔ ج أجنبيۃ۔</p>	<p>جَنْبٍ (ن س ض) جَنْبَانَةً: الرَّجُلُ: ٹپاک ہونا۔ جَنْبٍ: پہلو میں درد والا ہونا۔ نمونیا لاحق ہونا صفت (مَجْتَنِبٌ وَ جَنْبٍ)۔ (وَ اجْتَنِبْ وَ اجْتَنِبِ) القَوْمُ: جنوبی ہوا لگنا۔ جَنْبِهِ وَ جَنْبِيَّةً وَ جَنْبَانَةً وَ اجْتَنِبِيَّةً: دُور ہونا۔ جَنْبِيَّةُ الشَّيْءِ: کسی سے کوئی چیز دور کرنا۔ جَنْبِيَّةُ: پہلو میں چلانا۔ أَجْنَبِيَّةُ: دُور کرنا۔ أَجْنَبُ الرَّجُلُ: دُور ہونا۔ اِسْتَجْنَبْتُ: ٹپاک ہونا۔</p>
<p>أَجْنَحٌ وَ اجْتَنَحٌ وَ اسْتَجْنَحُ: جھکانا۔ تَجَنَّحٌ وَ اجْتَنَحٌ: ایک پہلو پر جھکانا۔ الجَنْحُ: جانب۔ پناہ۔ کنارہ۔ الجَنْحُ وَ الجَنْحُ: من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔</p>	<p>الجَنْحُ: گوشہ۔ جانب۔ ج جوانب۔ کہا جاتا ہے "ہو لَيْنُ الْجَنْبَابِ" وہ معیشت کے لحاظ سے نرم ہے۔ "هُوَ رَقِيقُ الْجَنْبَابِ" وہ لطیف ہے۔ الجَنْحَابُ: مہن۔ گوشہ۔ قوم کے حملہ سے جو قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "أَخْصَبَ جَنْبَابُ الْقَوْمِ" قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔ و "فُلَانٌ خَصِيْبُ الْجَنْبَابِ أَوْ جَدِيْبِهِ" فلاں سرسبز ہے یا قطرہ زدہ ہے۔ ج أجنبيۃ۔</p>	<p>الجَنْحُ: گوشہ۔ جانب۔ ج جوانب۔ کہا جاتا ہے "ہو لَيْنُ الْجَنْبَابِ" وہ معیشت کے لحاظ سے نرم ہے۔ "هُوَ رَقِيقُ الْجَنْبَابِ" وہ لطیف ہے۔ الجَنْحَابُ: مہن۔ گوشہ۔ قوم کے حملہ سے جو قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "أَخْصَبَ جَنْبَابُ الْقَوْمِ" قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔ و "فُلَانٌ خَصِيْبُ الْجَنْبَابِ أَوْ جَدِيْبِهِ" فلاں سرسبز ہے یا قطرہ زدہ ہے۔ ج أجنبيۃ۔</p>
<p>الجَنْحُ: پرندے کا بازو۔ من الانسان: ہاتھ اور بھل اور بازو اور پہلو۔ پناہ۔ اور اسی سے ہے "انفاهي جَنْحَ فُلَانٍ" میں فلاں کی پناہ میں ہوں۔ کنارہ۔ ہر چیز کا ایک حصہ۔ ج اجْنَحٌ وَ أَجْنَبِيَّةُ کہتے ہیں "رَبِّبْنَا اجْتَنَاحِي الطائرُ" لوگ اپنے وطن سے جدا ہو گئے "وَ رَكِبَ جَنْحًا حَايَ النَّعَامَةِ" اس نے معاملہ میں کوشش کی اور جلدی کی "وَ هُوَ مَقْضُوضٌ الجَنْحُ" وہ عاجز ہے۔ الجَنْحُ: گناہ۔ اور اسی سے ہے "لَا اجْتَنَاحُ</p>	<p>الجَنْحُ: گوشہ۔ جانب۔ ج جوانب۔ کہا جاتا ہے "ہو لَيْنُ الْجَنْبَابِ" وہ معیشت کے لحاظ سے نرم ہے۔ "هُوَ رَقِيقُ الْجَنْبَابِ" وہ لطیف ہے۔ الجَنْحَابُ: مہن۔ گوشہ۔ قوم کے حملہ سے جو قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "أَخْصَبَ جَنْبَابُ الْقَوْمِ" قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔ و "فُلَانٌ خَصِيْبُ الْجَنْبَابِ أَوْ جَدِيْبِهِ" فلاں سرسبز ہے یا قطرہ زدہ ہے۔ ج أجنبيۃ۔</p>	<p>الجَنْحُ: گوشہ۔ جانب۔ ج جوانب۔ کہا جاتا ہے "ہو لَيْنُ الْجَنْبَابِ" وہ معیشت کے لحاظ سے نرم ہے۔ "هُوَ رَقِيقُ الْجَنْبَابِ" وہ لطیف ہے۔ الجَنْحَابُ: مہن۔ گوشہ۔ قوم کے حملہ سے جو قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "أَخْصَبَ جَنْبَابُ الْقَوْمِ" قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔ و "فُلَانٌ خَصِيْبُ الْجَنْبَابِ أَوْ جَدِيْبِهِ" فلاں سرسبز ہے یا قطرہ زدہ ہے۔ ج أجنبيۃ۔</p>

ملک "تمارا کوئی گناہ نہیں۔ حج کا ایک حصہ۔"

الجَوَانِحُ: نا۔ جانب۔ ج جَوَانِحُ۔

الجَوَانِحُ: پہلیاں۔ واحد (الجَوَانِحَةُ)

جَنْدٌ: الجَنُودُ: فوج جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے

"جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ" جمع شدہ لشکر۔

تَجَنَّدَ: فوجی سپاہی بنا۔ فوج تیار کرنا۔

للأمر فارغ ہوتا۔

الجُنْدُ: لشکر۔ ج أجناد و جنود واحد

(جُنْدِي) الجُنْدُ: شرج أجناد۔ الشَّامُ

دمشق، حمص، حمصین، اردن اور فلسطین۔

الجند: تخت زمین۔ پتھر جو مٹی کے مشابہ ہو۔

الجندار: بلائی گارڈ۔ محافظ فوج۔ ج جنادرة

(جدید)

جَنْدَرٌ: الكتاب: سنے ہوئے پر قلم پھیر کر

روشن کرنا۔

الجُنْدُبُ والجَنْدَبُ: ایک قسم کی بڑی۔

عوام اسے قَبُوطُ کہتے ہیں۔ ج جنادب۔ أم

جُنْدَبُ: بلا۔ نذر۔ ظلم۔ کہا جاتا ہے "وقھواھی

أم جُنْدَبُ" یعنی ان لوگوں پر ظلم کیا گیا۔

الجُنْدُخُ: بڑی بڑی۔

الجُنْدُخَةُ: بارش کے پانی کا بلبلہ۔ ج جنادوع۔

الجنادع: حشرات الارض: زمین کے کیڑے

کوڑے۔

جَنْدَلَةٌ: پھاڑنا۔

الجَنْدَلُ: بڑی چٹان۔ واحد جَنْدَلَةٌ ج

جندادل۔

جَنْزَرَةٌ (ض) جَنْزَرًا: بھپانا۔ جمع کرنا۔

جَنْزِرٌ: مرنا اور تابوت میں رکھا جانا۔

جَنْزَرٌ: المیت: تابوت میں رکھنا۔

الجَنْزَرُ: مٹی کا چھوٹا سا گھر۔

الجَنْزَارَةُ وَالْجَنْزَارَةُ: میت۔ میت کا تابوت۔

میت کے دفن میں جانے والے۔ مجلس ماتم۔

شراب کی منگ۔ ج جنتانز۔

الجَنْتَانِزِيُّ: مُردوں کے آگے آگے پڑھنے

والا۔

الجَنْزَارُ وَالْجَنْزَارِيُّ: تانبے کا زنگار (جدید)

الجَنْزَارِيُّ: زنجیر۔

جَنْسٌ (ان) جَنْسًا: التمر: بالکل پک جانا۔

جَنْسٌ (س) جَنْسًا: الماء ونحوه: جم جانا

جَنْسَةً: یہ: مشابہ ہونا۔

جَانَسَهُ جَنْاسًا وَمُجَانَسَةً: مشابہ ہونا۔ ہم

جس ہوتا۔ اور اسی سے ہے "فلان يُجانس

البہائم" فلاں چوپایوں کے مشابہ ہے۔ یعنی اسے

عقل و تیز نہیں۔

تَجَانَسًا: ہم جس ہوتا اور اسی سے ہے "ومع

التجانس القانس" ہم جس کے ساتھ انسیت

ہے۔

الجَنْسُ: ماہیت جو انواع متعددہ کو شامل ہو

جیسے انسان اور گھوڑے کے لیے حیوانیت۔ قسم۔

ج أجناس۔

الجَنْسُ: جما ہوا پانی۔

الجَنْسُ: اپنے جس کے اندر اصل۔

الجَنْسِيَّةُ: جس کی حالت یا ماہیت۔

الجَنْسُ: فی البدیعی: علم بدیع کی اصطلاح

میں دو قسموں کا کلا یا بعضاً مشابہ ہونا۔

جَنْشٌ (ن) جَنْشًا: الیہ: کودنا۔ متوجہ ہونا

_____ منہ: گھبرانا۔

جَنْشٌ: خوف سے ہماگنا۔ بَصْرَه: گھورنا۔ تیز

نظر ڈالنا۔ جَنْشُ الطریقِ بالناس: تنگ ہونا۔

جَنْشٌ: مرنا۔

الجَنْشُ: مرنا۔

جَنْفٌ (ض) جُنُوفًا وَجَنْفٌ (س) جَنْفًا: عن

الطریق: راستہ سے علیحدہ ہونا۔ (وَأَجْنَفٌ) فی

وصیئہ: ظلم کرنا۔ صفت (جَنْفٌ وَأَجْنَفٌ)

جَانَفٌ جَنْفًا: أهله: منقہ کی وجہ سے علیحدہ

ہونا۔

تَجَانَفٌ: للانتم: مائل ہونا _____ عن

الطریق: الگ ہونا۔

الجَنْفُ: ظلم۔ حق والاصاف سے تملوز۔

الأجْنَفُ: خیرہ پشت۔ مؤنث جَنْفَاءُ ج

جَنْفٌ۔

المِجْنَفُ: طبعاً حق سے اعراض کرنے والا۔

جَنْقٌ (ض) جَنْقًا وَجَنْقٌ: المعجر: گوچن

سے پھینکا۔

الْمَنْجَبِيُّ: گوچن۔ ظن۔ لڑائی کا ایک آلہ

جس سے پتھر پھینکا کرتے تھے۔ ج مَجَابِقُ

ومَجَابِقُ وَمَنْجَبِيَّاتٌ۔

الجَنْكُ: ایک قسم کا باہا ج۔ جُنُوك۔

جَنْجِي (ض) جَنْجِيًا وَجَنْجِيًا: الشمر: درخت

سے پھل توڑنا۔ کہا جاتا ہے "جَنْجِي الشمرِ لہ

وَجَنْجَاءُ أَيَابًا" (جَنْجِيًا) الذهب: کان سے نکالنا۔

(جَنْجِيًا) گناہ کرنا۔ صفت (جان) ج جَنْجَاءُ

وَأَجْنَاءُ وَجَنْجَاءٌ۔ مؤنث جَنْجِيَةٌ ج جَوَانِحُ

وَجَانِيَاتٌ

أَجْنِيًا۔ الشجر: پکنا۔ أَجْنَبُ الارضُ:

زیادہ پھل یا زیادہ پیر اور راولی ہونا۔

جَانِيٌ مُجَانَأَةٌ وَتَجْنِي: علیہ: تا کردہ گناہ کی

نسبت کرنا۔ (تَجْنِيٌ وَأَجْنِي) الشمر: پھنا۔

تَوَزَّأَ: "أجنتی ماء المطر" گناہ پر آکر پانی پینا۔

الجَنْجِي: پینا ہوا پھل ہو یا سونا یا شمر وغیرہ ج

أَجْنَاءُ وَأَجْنِي: شمر جَنْجِيًا: تازہ چنا ہوا پھل۔

الجَنْجَاءُ: برہہ حج جو چلتی جائے۔

الجَنْجِيَّةُ: گناہ۔ رُغِيمٌ كَأَيُّرًا۔

المَجْنِي: مصدر میں بمعنی پھنا۔ چننے کی جگہ

جس سے پھل وغیرہ چنا جائے جیسے درخت ج

مَنْجَانُ۔

الجَهْدُ: برکھنے والا۔ دانہ۔ ج جَهْدًا بَدَّةُ

الجَهْدِي: شیرنی۔

الجَهْبُ: بد صورت چہرہ۔

المِجْهَبُ: بے حیا۔

الجَهْبِيُّوقُ: چوہے کی میٹھی۔

جَهْبَةٌ: بالسبع: روکنے کے لیے پھنسا چھانا۔

تَجَهَّبَهُ: عنہ: بازار ہونا۔

المَجْهَبَةُ: شیر۔

جَهْدٌ (ف) جَهْدًا: فی الامر: بہت کوشش

کرنا _____ بالرجل: احسان کرنا۔ جَهْدَةٌ

المرض: لاغر کرنا۔ جَهْدُ اللین: سارا کھن

نکال لینا۔ (وَأَجْهَدُ) الطعام: خواہش کرنا۔

جَهْدٌ وَأَجْهَدُ الدابة: طاقت سے زیادہ لادنا۔

أَجْهَدُ المالَ: بکیرنا۔ فَاكْرًا: أَجْهَدُ الحقَّ:

ظاہر ہونا۔ أَجْهَدُ فيه الشیْبُ: اجمعی طرح پر حیلہ

ظاہر ہونا۔ أَجْهَدُ فی الأمرِ: احتیاط کرنا۔ أَجْهَدُ

عَلَيْنَا العَلُوُّ: دشمنی میں پوری کوشش کرنا۔

أَجْهَدُ الأمرِ لزيد: ممکن ہونا۔

جُہْدٌ: پوری کوشش کرنا۔ تمکین ہونا۔ لاغر ہونا۔

جُہْدٌ (س) جُہْدًا: عیشہ: زندگی کا کدر ہونا۔

جَاهِدٌ مُجَاهَدَةٌ وَجِهَادًا: پوری طاقت صرف کرنا۔ کہا جاتا ہے "جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ" اللہ کے راست میں پوری طرح کوشش کرو جیسا کہ کوشش کا حق ہے۔ الْعَدُوُّ: جنگ کرنا۔

تَجَاهَدٌ وَاجْتِهَادٌ: فی الامر: کوشش کرنا اور پوری طاقت صرف کرنا۔ اِسْتَجَهَدَ: فی الامر: غور کرنا۔

الْجُهْدُ وَالْجِهَادُ وَالْمُتَجَهِّدُ: طاقت۔ استطاعت۔ کہا جاتا ہے "بَدَلْ جُهْدَهُ وَمُتَجَهِّدُهُ" اس نے اپنی طاقت صرف کی۔ مشعت۔ قرآن میں ہے "أَلْقَسْمُوا بِاللَّهِ جِهْدَ آيْمَانِهِمْ" انہوں نے بہت زور لگا کر قسم کھائی۔ الجہاد: فا۔ بے خوابی والا۔ کہا جاتا ہے "جِهْدٌ جَاهِدٌ" جیسے "أَيْلٌ لِأَيْلٍ" و "شعر شاعر"

الجِهَادُ: سخت زمین جس میں پیداوار نہ ہو ج جُہْدٌ۔

الجِهَادُ: سہ: دین کی حفاظت اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جنگ۔

الجِهْدَانُ: وہ شخص جس کو مشعت لاحق ہو۔ الجِهْدُ: جانوروں کی پسندیدہ چراگاہ۔ کہا جاتا ہے "مَرْعَى جِهْدٍ"

الجِهْدَانِيُّ: انتہائی۔ کہا جاتا ہے "جُهْدَاكَ انْ تَفْعَلْ كَذَا": تمہاری انتہائی کوشش ہے کہ تم یہ کیا کرو۔

الجُهْدِيُّ: کوشش۔ پوری کوشش۔ کہا جاتا ہے "لَا يُلَاحِظُ جُهْدِي فِي الْأَمْرِ" میں معاملہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔

جَهْرٌ (ف) جَهْرًا وَجَهْرًا: جَهْرًا: الامور وبالامر: اعلان کرنا۔ بِالْقَوْلِ: آواز بلند کرنا۔ الصوت: بلند کرنا۔ الرجل: بے پردہ دیکھنا اور دیکھوں میں بڑا معلوم ہونا۔ تقسیم کرنا۔ القوم: دیکھ کر زیادہ سمجھنا

الشئ: کسی چیز کو محول کرنا اندازہ کرنا۔ الارض: بغیر جانے ہوئے چلنا۔ الشئ فُلَانًا: بیت و جمال سے حیرت میں ڈال دینا۔ الامور: ظاہر و آشکارا ہونا۔ السقاء: منگھڑیہ میں بلو کر کھن نکالنا۔

جِهْرٌ (س) جَهْرًا: العین: سورج سے چند سیما جانا۔

جَهْرٌ (ك) جَهْرًا: الصوت: بلند ہونا۔ صفت (جہر و جہر): الرَّجُلُ: دیکھنے والے کی آنکھ میں بڑا معلوم ہونا۔

جَاهِرَةٌ مُجَاهِرَةٌ وَجَهْرًا: بالشئ: کھلم کھلا ظاہر کرنا۔ بالقراءة: بلند آواز سے پڑھنا۔ القوم بالامر: غلبہ کی کوشش کرنا۔

أَجْهَرٌ: الامور: اعلان کرنا۔ بالقراءة: بلند آواز سے پڑھنا۔ الرَّجُلُ: جیسے بچے یا صاحب جمال تہوں کا لب ہونا۔

تَجَاهَرٌ: بالامر: ظاہر کرنا۔ اجتهار: القوم: تعداد میں بہت سمجھنا۔ الرجل: کھلم کھلا دیکھنا اور بڑا سمجھنا۔ البؤ: صاف کرنا۔ الشئ فُلَانًا: بیت و جمال سے حیرت میں ڈال دینا۔

الجَهْرُ: سہ: چوڑا ٹیلہ۔ زمانہ کا ایک حصہ۔ تم کہتے ہو "کلمتہ جہر او بالجہر" میں نے اس سے کھلم کھلا گفتگو کی۔ "وَلَقَيْتُهُ جَهْرًا" میں نے اس سے رودر ملاقات کی۔

الجَهْرُ: بیت: حسن منظر۔ الجہار: سہ: تم کہتے ہو "لَقَيْتُهُ جَهْرًا" میں نے اس سے رودر ملاقات کی۔

الْأَجْهَرُ: سورج کی روشنی سے چند سیانے والا۔ خربصورت ویت والا۔ مؤنث (جہراء) ج جَهْرٌ۔

جَهْرٌ: الصوت: بلند و قوی آواز والا۔ ج جَهْرٌ۔

الجَهْرُ: خربصورت۔ بھلائی اور نیکی کے لائق۔ من اللہ: بے پائی کا درود۔ کلام جہر: بلند گفتگو۔ امرأة جہرہ: بلند آواز والی عورت۔ کہا جاتا ہے "هو عَقِيْفُ السَّرِيْرَةِ وَالْجَهْرِيَّةُ" وہ ظاہر و باطن کے لحاظ سے پاک دامن ہے۔

الجَهْرِيُّ: بلند آواز کی صفت میں واضح ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "صَوْتُ جَهْرِيٍّ" بلند آواز۔ اور بلند آواز والے کو کہتے ہیں۔ "رَجُلٌ جَهْرِيٌّ"

المَجْهَرُ وَالْمَجْهَرُ: وہ شخص جس کی عادت بلند آواز سے گفتگو کرنے کی ہو۔

المَجْهَرُ: خوردبین (Microscope) جَهْرٌ (ف) جَهْرًا وَاجْهْرًا: علی الجریح: مار ڈالنا۔

جَهْرَةٌ: بتا کرنا۔ میا کرنا۔ المیت: کفن رفن کا سامان کرنا۔ العروش: جینز کا سامان تیار کرنا۔

تَجَهَّرَ: للفسف: سامان میا کرنا۔ (و اجھائی للامر: آباد ہونا۔

الجِهْزَاوَالْجِهْزَاوَاللَّبِيْتِ: للمسافر او للعروس: ضروری سامان۔ من جسم الانسان: اعضائے انسانی جن کی کوئی خاص غرض ہو۔ جیسے اعضائے تنفس۔ یا آلات ہضم۔ ج أَجْهَرَةٌ وَاجْهْرَاتُ: الجَهْرَاءُ: بلند زمین۔

الجَهْرِيَّةُ: من الخیل: ہلکا ہلکا۔ موت (جہر و جھجھ)۔ ناگمانی موت۔

جَهْرَةٌ: ایک عورت کا نام ہے۔ ایک شغل ہے "قطعت جہرہ قول کل خطیب" اس کا واقعہ یوں ہے کہ کچھ لوگ دو قبیلوں کے درمیان ایک خون کے معاملہ میں صلح کرانے کے لیے تقرر کر رہے تھے تاکہ اولیاء متقول کو دست لینے پر راضی کر دیں کہ اتنے میں جہرہ نے کہا کہ متقول کے ولی نے قاتل کو پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ قطعت جہرہ قول کل خطیب" یعنی اب دست اور مقدار دست کے بارے میں گفتگو کی ضرورت نہیں کہ قاتل کے قتل کے بعد دست نہیں۔

جَهْشٌ وَجَهْشٌ (س) جَهْشًا وَجَهْشًا: جَهْشًا: الیہ: روتے ہوئے یا روانسا ہو کر کسی سے فریاد کرنا۔

جَهْشٌ (س) جَهْشًا: منہ بڑھانا اور بھگانا۔ أَجْهَشُ: الیہ: روتے ہوئے یا روانسا ہو کر

فریاد کرنا۔ ”أَجْهَشْتِ النَّفْسَ“ اَلْمَا۔
 أَجْهَشَةٌ: جلدی کرانا۔
 الجَهْشَةُ: آنسو (___ وَالْجَاهِشَةُ)
 لوگوں کی جماعت۔
 الجَهْشُوشُ: تیز رفتار۔
 جَهْشَةٌ (ف) جَهْشًا: غالب ہونا۔ عن
 كذا: دور کرنا۔ منع کرنا۔
 أَجْهَشْتُهُ: عن الامر: دور کرنا۔ علیحدہ کرنا
 ___ عن مكانه: اٹھانا ___ فلائنا: پھلانا۔
 أَجْهَشْتِ الْمَرْأَةَ: حمل گرا دینا۔
 جَاهِضَةٌ: بازرگنا۔ جلدی کرانا۔
 الجَاهِضُ: تیز طبیعت۔ مؤنث (جَاهِضَةٌ)
 جَ جَوَاهِضُ
 الجَاهِضَةُ: گدھے کا ایک سالہ مادہ پیتہ۔
 الجَهْشُوشَةُ وَالْجَهْشَةُ: تیزی طبیعت
 الجَهْشُ وَالْمَجْهَشُ وَالْجَهْشِيُّ: ساقط
 شدہ پیتہ۔
 الجَهْشَةُ: غمزدہ مادہ حیوانات۔
 المِجْهَاضُ: من الاناث: اسقاط کی عادت
 والی عورت۔ جَ مَجْهَاضِيٌّ
 جَهْلٌ (س) جَهْلًا وَجَهَالَةً: نہ جاننا۔ آن پڑھ
 ہونا ___ علیہ: بیوقوف بننا۔ بیوقوف ہونا۔ اُجْهَدُ
 پَن کرنا۔ صفت (جاہل) جَ جَهْلٌ وَجُهَالٌ
 وَجَهْلَاءٌ وَجُهْلٌ وَجُهْلٌ وَجُهْلَةٌ: جہل
 الحق: ضائع کرنا۔ جَهَلْتُ الْقِدْرَ: بَست ایلنا۔
 جَهْلَةٌ: جہل کی نسبت کرنا۔
 جَاهِلَةٌ: نادانی میں مقابلہ کرنا۔ بدسلوکی کرنا۔
 اور اسی سے ہے ”رَأَيْتُ مِنْهُمَا مَجْهَلَةً ثُمَّ
 انْقَلَبْتُ مَجْهَلَةً“ میں نے ان دونوں سے
 خوش معاملگی دیکھی پھر وہ بد معاملگی ہو گئی۔
 تَجَاهَلٌ: بکلف نادانی ظاہر کرنا۔
 اسْتَجْهَلْتُ: جاہل سمجھنا۔ حقیر سمجھنا۔
 ”اسْتَجْهَلْتُ الرِّيحَ الْعَصْنَ“ ہلانا۔
 الجَهْلَةُ: نادانی۔
 الجَاهِلِيَّةُ: نادانی کی حالت۔ نلک عرب میں
 اسلام سے پہلے کی بت پرستی۔ جاہلیت کا اطلاق
 عرب کے اُن احوال پر ہے جو اسلام سے پہلے
 تھے۔

الجَهْلُ: نا تجربہ کار جاہل۔ جَ جُهْلًا۔
 المَجْهَلُ وَالْمَجْهَلَةُ: انکاری ہلانے کی
 لکڑی۔ کرہائی۔
 المَجْهَلَةُ: سبب نادانی۔
 المَجْهَلُ: بغیر نشان کا جنگل۔ جَ مَجْهَلٍ۔
 المَسْجَلُ: نادانیاں۔ واحد جَهْلٌ۔ اور اسی سے
 ہے ”إِنَّا لَنَنْصِفُ عَنْ مَجْهَلٍ قَوْمًا“ ہم اپنی قوم
 کی نادانوں سے درگزر کرتے ہیں (الفعل
 المَجْهُولُ): فعل جس کا ماضی معلوم نہ ہو۔ ناقصہ
 (مَجْهُولَةٌ) بے داغ والی اونٹنی۔
 جَهْمٌ (ک) جَهْمَةٌ وَجُهْمَةٌ: ترشرد ہونا۔
 تیوری پڑھانا۔ صفت (جہم)
 جَهْمَةٌ وَجَهْمَةٌ (ف س) جَهْمًا وَجُهْمَةً
 وَنَجْمَةً لَه: ترشردی سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے
 ”جَهْمَةٌ أَمَلَةٌ“ جبکہ اپنی آرزو میں کامیاب نہ
 ہو۔
 أَجْهَمٌ: المَجْمُوعُ: بے بارش کے ہاؤل والا ہونا۔
 اجْتَهَمَ: رات کی آخری چوتھائی کی ابتدا میں
 داخل ہونا یا چلنا۔
 الجَهْمَةُ وَالْجَهْمَةُ: رات کے آخری حصوں
 کی ابتداء۔ الجَهْمَةُ: بڑی دیگ۔
 الجَهْمُ وَالْجَهْمُومُ: عاجز و ضعیف۔ الجَهْمُ:
 شیر۔
 الجَهْمُ: بے بارش کا ہاؤل۔
 الجَهْمَانُ: زعفران۔
 جَهْنٌ (ن) جَهْنُونا: قریب ہونا۔
 الجَهْنُ: ترش روئی۔
 جارِیةٌ جَهَانَةٌ: نوجوان لڑکی۔
 جَهْمٌ: روزخ (غیر مصرف)
 جَهْمِيٌّ (س) جَهْمًا: البیت: اُجاڑ ہونا۔ ویران
 ہونا۔ صفت (جَہْم)
 جَهْمِيٌّ: الخُزَحُ: کشادہ کرنا۔
 جَاهِيٌّ مَجْهَاهَةٌ: فخر میں مقابلہ کرنا۔
 أَجْهِيٌّ اِجْهَاءً: الطریق: واضح ہونا ___
 السماء: ہاؤل کھل جانا ___ علیہ: نکل کرنا
 ___ الطریق: واضح کرنا۔ البیت: بے پردہ
 بنانا۔ المرأة علی زوجها: حاملہ نہ ہونا۔
 الأَجْهِيٌّ: مَحْجَا (___ وَالْمَجْهِيٌّ) من

البيوت: بغیر نعت والا مکان۔ مؤنث جَهْوَاءُ۔
 خِيَاءٌ مُجْهَبٌ: بغیر پردے کا خیمہ۔ سَمَاءٌ جَهْوَاءُ:
 کھلا ہوا آسمان۔
 بیت (جَهْوَانُ): بے پردے کا مکان۔
 جَابٌ (ن) جَوْنَا وَتَجَوْنَا: البلاد: طے
 کرنا۔ جَابَ الثَّوْبَ جَوْنَا: کاٹنا۔ الصخرَةُ:
 چٹان کو تراشنا۔
 جَابٌ (ن) جَوْنَا وَجَوَّبَ: الثَّوْبَ: گریبان
 بنانا۔ جَوَّبَ الشَّيْءَ: بچھنے سے آگانا۔
 جَاوَبَهُ مَجَابَةً: گفتگو کرنا جواب دینا۔
 اجَابَةٌ اجَابَةٌ وَاِجَابًا وَاِجَابًا: سؤالہ و عن
 سؤالہ والی سؤالہ: جواب دینا۔ کہا جاتا ہے
 ”اجابته الی حاجته“ اس کی حاجت پوری
 کرنے کے لیے خوشی سے آگے بڑھا۔ وَاِجَابَتِ
 الارضُ: آگانا۔
 تَجَاوَبْنَا: ایک دوسرے کو جواب دینا۔ یا ہم
 گفتگو کرنا۔
 اِنْجَابٌ: الثَّوْبُ: پھینکا ___ السحابةُ:
 کھل جانا۔
 اِخْتَابٌ: البلاد: طے کرنا ___ الصخرَةُ:
 چٹان کو تراشنا ___ البئْرُ: کھودنا ___
 القميصُ: پھینکا۔
 اسْتَجَابَهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ اسْتِجَابَةً
 وَاسْتَجَوَبَهُ وَاسْتَجَوَّبَ لَهُ اسْتِجَوَابًا: جواب
 دینا ___ اللہ فلانا ولفلان ومن فلان: دعا
 قبول کرنا۔
 الجَوْبُ: مہ: عورت کی قمیص۔ پڑاؤؤل۔
 اِنْجِيْسِيٌّ: جَ اَجْوَابٌ (___ وَالْمِجْجُوْبُ)
 ڈھال۔
 الجَوْبَةُ: بگڑھا۔ گھروں کے درمیان خالی جگہ۔
 جَ جَوْبٍ
 المَجْوَابُ: جواب۔ جَ اَجْوَبَةٌ وَجَوَابَاتُ
 العَابَةِ: قیولیت۔ کہا جاتا ہے ”اَسْأَلُ سَمْعًا
 فَأَسْأَلُ جَابَةً“ اس نے بڑے طریقے سے سناور
 بڑے طریقے سے قبول کیا۔
 المَجْوَابُ: بَست طے کرنے والا۔ حریری کا قول
 ہے ”جَوَابٌ اَفَاقِي تَوَامَّتْ مَسْفُوتُهُ“ اَفَاقِ کو
 طے کرنے والا ہے اس کا سفر اس کو پھینکتا رہتا

وَأَجَاوِدُ وَجُودٌ وَجُودَةٌ وَجُودَاءٌ۔ لرس
جَوَادٌ: تیز رفتار گھوڑا۔ ج جَوَادٌ وَأَجْوَادٌ
وَأَجَاوِدُ کہا جاتا ہے "سبڑتُ إِلَيْهِ جَوَادًا" میں
اس کی طرف دوڑتا ہوا چلا۔ "وَسَبْرًا عَقِبَةً
جَوَادًا وَعَقِبَتَيْنِ جَوَادَتَيْنِ وَعَقَابًا جَوَادًا" ہم
ذور کی گھاٹی یادو گھاٹی یا گھاٹیوں پر چلے۔
الجَوَادُ: بیانیاض۔
الْأَجْوَدُ: اسم تفضیل۔ مؤنث جَوْدَاءُ
(غلاف قیاس) ج جَوْدُوٌّ وَأَجْوَادِيدُ۔
الجَوَادِي: زعفران۔
التَّجْوِيدُ: فی القِرَاءَةِ: قواعد فن قرات کے
مطابق پڑھنا۔
التَّجَاوُودُ: مفید بارشیں (جمع ہے اس کا واحد
نہیں)
رجلٌ أو شاعرٌ (مُجَيِّدٌ وَمَجْوَدٌ) عمدہ کام
کرنے والا مرد۔ جيد اشعار کئے والا شاعر۔
المَجْوُودُ: بیاسہ قریب ہلاکت۔
الجَوْدِيُّ: کبیل۔
جَاوِدٌ (ن) جَوْرًا۔ عن الشَّيْءِ: ہٹ جانا۔ کہا
جاتا ہے "جَاوِدٌ عَنِ الْمَطْرِقِ" وہ راستہ سے ہٹ
گیا۔ علم: ہٹ کرنا۔ صفت (جائز) ج
جَوْرَةٌ وَجَوْرَةٌ وَجَوْرَةٌ (جَوْرًا) فریاد
ری پانا۔
جَوْرَةٌ: علم کی طرف منسوب کرنا۔ پچھاڑنا۔
جَوْرُ الْبِنَاءِ: گرا دینا۔
جَاوِرٌ مُجَاوِرَةٌ وَجَوَافًا وَجَوَازًا: پڑوس
میں رہنا۔ المسجِدُ: احکام کرنا۔
أَجَاوِرَةٌ إِجَارَةٌ۔ من العذاب: پچانا۔ پچھڑانا۔
پناہ دینا۔ فلَانًا: فریاد ری کرنا۔ ہ عن کلمًا:
ہنا دینا۔ المتاع: حفاظت کے لیے برتن
میں رکھنا۔
تَجَوَّرَ: الزَّجْلُ: پچھاڑ جانا۔ علی
الفراس: پہلو پر لیٹنا۔ البناء: گرجا۔ کہا
جاتا ہے "تَجَوَّرَ عِبَادُ اللَّيْلِ" یعنی تاریکی چھٹ
گئی۔
تَجَاوَرٌ وَاجْتَوَرٌ۔ القَوْمُ: ایک دوسرے

إِنِّي لَأَجَادُ إِلَى لِقَائِكَ" میں تمہاری ملاقات کا
مشتاق ہوں (جَوْدًا وَجَوْدًا) العَيْنُ:
بنت آنسوؤں والی ہونا۔ المَطَرُ: بنت
بارش ہونا۔ صفت (جَانِدٌ) ج جَوْدُ۔
جَوْدَتٌ۔ الارضُ: زمین پر کثیر بارش ہونا۔
جَوْدَةُ الزَّجْلِ: ہلاکت کے قریب ہونا۔ بیاسہ ہونا۔
جَوْدُ الشَّيْءِ: خوبصورت بنانا۔ عمدہ بنانا۔
فی عدوہ: تیز دوڑنا۔ القَارِي: فن تجوید
کے لحاظ سے پڑھنا۔
جَاوِدَةٌ مُجَاوِدَةٌ: بخشش کرنے پر فخر کرنے
میں مقابلہ کرنا۔
أَجَادَ: اچھا بنانا۔ بالولد: فیاض بچہ کا باپ
ہونا۔ أَجَادَةُ النِّقْدِ: کھرے کئے دینا۔ (ج
وَأَجْوَدُ) الشَّيْءِ: عمدہ بنانا۔ أَجَادَ الرَّجُلُ: قتل
کرنا۔ أَجَادَتِ الْأَرْضُ: زمین پر کثیر بارش ہونا۔
تَجَوَّدَ: عمدہ چیز کا انتخاب کرنا۔ فی
صنعتہ: صنعت میں عمدگی سے کام کرنا۔
تَجَاوَدَ: القَوْمُ: یہ دیکھنا کہ حجت کے لحاظ سے
کون بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے "ہم يَتَجَاوَدُونَ
الْحَدِيثَ" وہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے لحاظ سے
کون بہتر ہے۔
إِسْتَجَادَهُ: عمدہ سمجھنا۔ اسْتَجَادَ الْأَمِيرُ:
بخشش طلب کرنا۔
الْمَجَادُ: باطل۔ کہا جاتا ہے "وقموا فی ابی
جاد" وہ لوگ باطل میں چلا ہو گئے۔
الجَوْدُ: بھوک۔
الجَوْدُ: ع۔ الجَوْدُ والمَطَرُ الجَوْدُ: بنت
بارش۔
الجَوْدَةُ الجَوَادَةُ: بیاس۔
الجَوَادُ: بیاس کا انتہائی مرتبہ جو باعث ہلاکت
ہو۔


الجَوْدُ: عمدہ۔ ج جَوَادُ۔ و ج جَوَادَاتُ وَ
جَوَادَاتُ (جَوَادَاتُ) اصل میں جَوَادُ ہے۔ واو کو ہمزہ
سے بدل لیا گیا ہے اور یہ شاذ ہے)
الجَوَادُ: مخی (تذکرہ مؤنث) کہا جاتا ہے رجلٌ
جَوَادٌ وَامْرَأَةٌ جَوَادَةٌ۔ ج أَجْوَادٌ وَأَجَاوِدٌ

ہے۔
الجَوْدَةُ: جواب کی کیفیت۔
المَجَالِبُ: جَانِبُ الْعَيْنِ: شہر۔
الجَوَالِبَةُ: پھیلنے والی خبر۔ کہا جاتا ہے۔ "نَهْلٌ
عِنْدَكَ مِنْ جَوَالِبَةِ خَبْرٍ" کیا تمہارے نزدیک
کوئی ایسی خبر ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں
نقل ہوتے ہوئے تمہارے پاس پہنچی ہو۔
المَجْوُودَةُ: جواب۔
المَجْوُوبُ: بڑھال۔
المَجْوُوبُ: پھاڑنے والا۔
جَوْتُ (س) جَوْتُ: اوپر سے بڑے اور نیچے
سے لگے ہوئے بیٹ والا ہونا۔ صفت (أَجْوْتُ)
مؤنث جَوْتُ مَجْوُوتٌ۔
الجَوْتُ وَالْمَجْوُودَةُ: بکری کا وجہ۔
جَاخٌ (ن) جَوْحًا: راہ راست سے ہٹ جانا
(جَاخَهُ جَوْحًا وَجَاخَهُ وَأَجَاخَهُ وَاجْتَاخَهُ)
جز سے اُکھیرنا۔ ہلاک کرنا۔
الجَوَالِبَةُ: بلا۔ ہلاکت۔ بڑی مہمیت۔ سنہ
جائحہ: خشک سال۔ ج جَوَالِحَاتُ وَجَوَالِحُ
الْأَجْوَحُ: کشادہ۔ مؤنث جَوْحَاءُ۔ ج جَوْحُ
الجَوْحُ: تیز۔
الجَوْحَةُ: مخی مہمیت۔
جَاخٌ (ن) جَوْحًا وَجَوْحًا: السبيل
الوَادِي: کناروں کو ہمالے جانا۔ جَوْحَهُ:
پچھاڑنا۔ اُکھیرنا۔
تَجَوَّحَ: پچھاڑ جانا۔ اُکھیرنا۔ تَجَوَّحَتِ الْبَيْتُ:
گرجا۔ الفَرْحَةُ: زخم کا پھڑکاؤ۔ پڑنا۔
الجَوْحُ: اون کا پناہ ہوا کپڑا۔ ج أَجْوَاخُ۔
الجَوْحَةُ: اولی کپڑے کا ٹکڑا۔ گڑھا۔
جَادٌ (ن) جَوْدَةٌ وَجَوْدَةٌ: عمدہ ہونا۔ اچھا بنانا۔
(جَوْدٌ وَأَجْوَدٌ) الفَرَسُ: تیز رفتار
ہو۔
جَادَةٌ (ن) جَوْدًا: بخشش میں غالب ہونا
۔ ہ الهَوِيُّ: غالب ہونا۔ (جَوْدًا)
علیہ: بخشش کرنا۔ صفت جَوَادٌ۔ بالمعال:
خرچ کرنا۔ بنفسیہ: جان دینا۔ کہا جاتا ہے

جَوْلَةٌ: بکلت کھانے کے بعد حملہ کرنا۔ جَوْلُ الْأَرْضِ: زمین میں بہت چکر لگانا۔	تَجَوَّفٌ: کھوکھلا ہونا۔ (تَجَوَّفَهُ وَاجْتَأَفَهُ) جوف میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ الوحشی کناسہ و تَجَوَّفَهُ" وحشی جانور اپنے بھٹ میں داخل ہو گیا۔	جوش من الليل "رات کا گلا حصد یا کچھ حصہ گزر گیا۔
جَوْلَةٌ مُجَاوِلَةٌ: ایک دوسرے کو دھکنارنا۔ ایک دوسرے کو ہٹانا۔	اجْتَأَفَ وَاسْتَجَأَفَ: استَجَأَفَ الشَّيْءُ: کشارہ ہونا۔ الشَّيْءُ: کھوکھلا پانا۔	الجَوْشَنُ: سینہ۔ زرہ ___ من الليل: رات کا وسط یا ابتدائی حصہ۔ ج جَوَّاشِنُ۔
أَجَالَ: الشَّنْ وَب الشَّنْ: گھمانا۔ السيف: کتوار سے کھیلنا اور ادھر ادھر گھمانا۔	الجَوَّفُ: ہ۔ - پیٹ ___ من البيت: اندرونی حصہ۔ ج أجواف۔	جَوَّاطُ (ن) جَوَّطًا وَجَوَّطَانًا: کبوتر سے چلانا۔ جَوَّطٌ: نوج ہونا بے مبر ہونا۔ (وَجَوَّطٌ): کوشش کرنا۔
تَجَاوَلَ: القومُ في الحرب: ایک دوسرے کے مقابلہ میں چکر لگانا۔	الجَوَّفُ: ہ۔ - کشارگی۔	الجَوَّاطُ: بنگ دلی بے مبری۔ الجَوَّاطُ: کبوتر سے چلنے والا۔ اجڑ۔ بخت کھانے والا۔
اجْتَأَلَ اجْتِئَالًا: گھومنا ___ القوم: ارادہ سے پھیرنا ___ مِنْهُمْ جَوْلًا: پسند کرنا ___ أَمْوَالَهُمْ: لے جانا۔	الجَوَّافُ: قلد جوف تک پہنچنے والی چیز۔ مَوْتُ جَائِفَةٍ: الجَائِفَةُ: نیزہ کی مار جو جوف تک پہنچے۔ ج جَوَّافٍ۔	الجَوَّاطَةُ: بمعنی جَوَّاطٌ۔ تاہم لہذا کے لیے ہے۔
انجَالُ: العباڑ بلند ہونا اور پھیلنا۔ استَجْأَلَ استَجْأَلًا: اموالہم لے جانا۔	الْأَجْوْفُ: کھوکھلا۔ کشارہ جوف والا۔ مَوْتُ جَوَّافٍ ج جَوَّافٍ: "الجَوَّافُ مِنَ الدِّلَاءِ" کشارہ ذول ___ من القضاء او المشجر: اندر سے کھوکھلا۔ الفعل الْأَجْوْفُ: وہ فعل جس کا معنی کلد حرف علت ہو۔ جیسے قال 'يارع' خاف أجوف: بڑا شیر۔	جَوَّاعٌ (ن) جَوَّعًا وَجَوَّاعَةً: بھوکا ہونا۔ صفت (جَوَّاعٌ وَجَوَّاعَانٌ) مَوْتُ جَوَّاعَةٍ وَجَوَّاعِيٌّ ج جَوَّاعٌ وَجَوَّوعٌ ___ اليه: مشتاق ہونا۔
استَجْأَلَ اجْتِئَالًا: اموالہم لے جانا۔ الجَوْلُ: ہ۔ گھونڈوں یا چرخوں کا گلد۔ رشی۔ ج أجوال (___ والجَوْلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔	المَجْوُوفُ: بڑے جوف والا۔	جَوَّعَةٌ تَجَوَّعًا وَأَجَاعَةً: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "أَجَاعٌ قِلْمُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں بھرا۔ تَجَوَّعٌ: تکلف بھوکا ہونا۔
الجَوَالُ وَالجَوْلُ: قبر یا کوئیں کی دیوار پہاڑ کا پہلو۔ جَوْلُ القبر: قبر کا ارد گرد۔ کہا جاتا ہے "ماله جَوَالٌ وَجَوْلٌ" اس کا پختہ ارادہ نہیں ج جَوَالٌ وَجَوَالٌ وَجَوَالٌ القَوِّ جَوَّالَةٌ وَأَجْوَالٌ۔	المَجْوُوفُ: کھوکھلا۔ رجل (مَجْوُوفٌ وَأَجْوُوفٌ مَجْوُوفٌ): بزدل۔	استَجْأَلَ استَجْأَلًا: ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے رہنا۔ کسی چیز کو کھانا اور سیر نہ ہونا۔
الجَوَّالَةُ: من الشئ: چیز کا بتر حصہ۔ الجَوْلَانُ وَالجَوْلَانُ: مٹی جس کو ہوا ادھر ادھر کرے۔	المَجْوُوفُ: کھوکھلا۔ جوف والا۔	الجَوَّوعُ وَالمَجْأَعَةُ: بھوک۔ الجَوَّوعُ الكَلْبِيُّ او الجَوَّوعُ البَقْرِيُّ: معدہ کی ایک بیماری کا نام جس میں آدمی شکم سیر نہیں ہوتا اور اگر ہو جاتا ہے تو جلدی بھوک لگ جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے "عَامٌ مَجْأَعَةٌ او مَجْوَعَةٌ" بھوک کا سال۔ ج مَجْأَعٌ۔
الجَوْلَانُ: ہ۔ مال کا چھوٹا اور رومی حصہ جَوْلَانٌ الْهَمُومُ: غم کی ابتدا۔	الجَوَّافُ: کھوکھلا۔ جوف والا۔	الجَوَّوعَةُ: اسم مرقہ۔ قبیلہ کا خلی ہونا۔ جوف جَوَّافًا: کھوکھلا ہونا۔
الجَوَّالُ وَالجَوَّالَةُ: بخت چکر لگانے والا۔ کہا جاتا ہے "هو جَوْلَةٌ جَوَّابَةٌ" وہ بخت زیادہ چکر لگانے والا ہے۔ اور مقالات کو طے کرنے والا ہے۔	الجَوَّافُ: ایک قسم کی چھل۔	جَوَّافٌ (ن) جَوَّافًا: گمرا کرنا ___ ه بالطعنة: جوف میں نیزہ مارنا۔
الأَجْوَالُ: اسم تفضيل۔ يوم أجْوَالُ: بخت غبار کا دن۔	الجَوَّاقُ: ج أجواق (و الجَوَّاقَةُ) لوگوں کی جماعت۔	جَوَّافٌ جَوَّافًا: کھوکھلا ہونا۔
الأَجْوَالِيُّ: بخت چکر لگانے والا کھوڑا۔ المَجْأَلُ: چکر لگانے کی جگہ۔	الجَوَّاقُ: مونی گردن والا۔ أجْوَقُ الفلکُ: بنگے ہوئے جڑے والا۔	جَوَّافَةٌ (ن) جَوَّافًا: گمرا کرنا۔ جوف میں سے سب کچھ نکال لینا۔
المَجْجُولُ: ذوال۔ پازیب۔ تعویذ۔ ہار میں چاندی کا ہلال۔ کرتی۔ گور خر۔ چاندی۔ لکڑی کا بیڑا۔ پالہ۔ کتاب۔	المَجْوُوقُ: شیرھے جڑوں والا۔	جَوَّافَةٌ الطَّعْنَةُ وَبِالطَّعْنَةِ: جوف میں نیزہ مارنا ___ النياب: بھیڑنا۔
المَجْجُولِيُّ: بخت چکر لگانے والا کھوڑا۔ المَجْجُولُ: چکر لگانے کی جگہ۔	جَوَّاقٌ (ن) جَوَّاقًا وَجَوَّاقًا وَجَوَّاقًا وَجَوَّاقًا: جینا لانا و جَوَّاقٌ تَجَوَّاقًا: فی المكان: چکر لگانا۔ گھومنا۔ جَوَّاقٌ الشَّيْءُ: پسند کرنا۔ جَوَّاقٌ القَوْمُ	جَوَّافَةٌ (ن) جَوَّافًا: گمرا کرنا۔ جوف میں سے سب کچھ نکال لینا۔
المَجْجُولِيُّ: بخت چکر لگانے والا کھوڑا۔ المَجْجُولُ: چکر لگانے کی جگہ۔	جَوَّاقٌ (ن) جَوَّاقًا وَجَوَّاقًا وَجَوَّاقًا وَجَوَّاقًا: جینا لانا و جَوَّاقٌ تَجَوَّاقًا: فی المكان: چکر لگانا۔ گھومنا۔ جَوَّاقٌ الشَّيْءُ: پسند کرنا۔ جَوَّاقٌ القَوْمُ	جَوَّافَةٌ (ن) جَوَّافًا: گمرا کرنا۔ جوف میں سے سب کچھ نکال لینا۔
المَجْجُولِيُّ: بخت چکر لگانے والا کھوڑا۔ المَجْجُولُ: چکر لگانے کی جگہ۔	جَوَّاقٌ (ن) جَوَّاقًا وَجَوَّاقًا وَجَوَّاقًا وَجَوَّاقًا: جینا لانا و جَوَّاقٌ تَجَوَّاقًا: فی المكان: چکر لگانا۔ گھومنا۔ جَوَّاقٌ الشَّيْءُ: پسند کرنا۔ جَوَّاقٌ القَوْمُ	جَوَّافَةٌ (ن) جَوَّافًا: گمرا کرنا۔ جوف میں سے سب کچھ نکال لینا۔
المَجْجُولِيُّ: بخت چکر لگانے والا کھوڑا۔ المَجْجُولُ: چکر لگانے کی جگہ۔	جَوَّاقٌ (ن) جَوَّاقًا وَجَوَّاقًا وَجَوَّاقًا وَجَوَّاقًا: جینا لانا و جَوَّاقٌ تَجَوَّاقًا: فی المكان: چکر لگانا۔ گھومنا۔ جَوَّاقٌ الشَّيْءُ: پسند کرنا۔ جَوَّاقٌ القَوْمُ	جَوَّافَةٌ (ن) جَوَّافًا: گمرا کرنا۔ جوف میں سے سب کچھ نکال لینا۔

<p>جَبَبٌ: الْقَبِيضُ: گریبان بنانا۔ الجبب - من القميص: گریبان۔ دل وسینہ۔ کہا جاتا ہے "ناصح الجبب" امین وصارق جبب الارض: زمین میں داخل ہونے کی جگہ۔ ج۔ جویوب۔ الجبب والجببیتہ۔ عند العوام: حیل۔ پاکت۔ ج۔ جیباب۔ جباخ یجیبخ جبحنا۔ السبل الوادی: کناروں کو بہا لے جانا۔ جبادو جید یجباد جیداً: خوبصورت اور لمبی گردن والا ہونا۔ صفت (أجید) مؤنث جیداء و جیدانہ۔ ج۔ جبود۔ اور کبھی جید گردن کی صفت میں بھی واقع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "عنق أجید" الجدید: گردن۔ ج۔ اجناد و جیود۔ جیحز۔ الحوض: گچ کرنا۔ جیحز: حزیب ايجاب بمعنی نعم۔ یعنی ہاں۔ العیشر: گچ۔ الجیحار: بے بجا چرند۔ (____ والجاہر) غضہ یا بھوک کی وجہ سے سینہ کی سوزش۔ حوض (مخیز) گچ کیا ہوا حوض۔ گمراہ حوض۔ جیاشت (ض) جیشا و جیشا و جیشا۔ القدز: ایلنا۔ البحر: جوش مارنا۔ الصدز: غصہ سے جوش میں آنا۔ الحرب یتنہم: گھسان کی جگہ شروع ہونا۔ العین: آنسو بہانا۔ الوادی: موج مارنا۔ المیزاب: پرنا۔ کا خوب اچھی طرح بہ پڑنا۔ النفس: نبی حلا۔ نفس العیبان: بھانگے کا ارادہ کرنا۔ جیش۔ الخیوش: فوجوں کو جمع کرنا۔ جیش۔ القوم: اکٹھا ہونا۔ نجیشت نفسہ: نبی حلا۔ استجاش۔ الجیش: جمع کرنا۔ الامیز: امیر سے مدد اور لشکر طلب کرنا۔ القوم: بددینے پر برا بیچنے کرنا۔ الجائشة: نس۔ الجیشة۔ جاش کا اسم مؤنث۔ جیشات۔</p>	<p>وادی۔ کشادہ میدان۔ جَوُّ النبیث: گھر کا اندرونی حصہ جَوُّ الماء: زمین کا وہ حصہ جو پانی کے لیے کھودا جائے۔ جَوُّ کلی شیئ: اندرونی حصہ۔ ج جواء و أجواء۔ الجَوَّانی: جَوُّ کی جانب منسوب۔ اس کا تعین پڑاتی ہے۔ دیکھئے لفظ پڑانی۔ الجَوَّة: ملک کا پیر۔ زمین کا تخت کھڑا۔ پہاڑ وغیرہ کا گڑھا۔ لوہے کا رنگ۔ گندم گوں رنگ۔ جَوِّی (س) جَوِّی: حش یا تم کی وجہ سے جلن لاحق ہونا۔ الماء: بدبودار ہونا۔ الشئی: ناپسند کرنا۔ جَوِّیث نفسه من البلد عن البلد: ناواقف ہونا۔ جَوِّی مُجَاوِة۔ لابل بالابل پانی پر بلانا۔ اجتوی۔ البلد: اقامت ناپسند کرنا۔ (____ وامتجوی) الطعام: ناپسند کرنا۔ الجَوِّی۔ سہ: تم یا حش کی وجہ سے سوزش سینہ کا ایک مرض۔ مرض کی طوالت۔ جملائے سوزش حش۔ الجَوَّاء۔ کشادہ وادی۔ زمین کا اندرونی حصہ۔ چرواہے کا تھیلا۔ وہ چیز جس پر ہانڈی رکھی جائے۔ الجَوِّی: بدبودار۔ عاشق۔ جملائے سوزش حش۔ الجَوِّی: جگہ دل۔ مؤنث جَوِّیة۔ الجیثہ: پانی وغیرہ جبکہ بدبودار ہو جائے۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ ج۔ جی۔ جاء یجی و یجؤ و یجیثا و میجیثہ و جیثاً و جیثة۔ آتا۔ یہ۔ لانا۔ جاء ء و جاء الیہ۔ آتا۔ الشئی: صفت (جاء) مؤنث جاتیة جآئی و جآیائی فجیثة: کثرت آمد میں متابہ کرنا۔ أجاء ء لانا۔ آئے کو لازم و ضروری ٹھہرانا۔ الجیثة۔ سہ۔ ایک مرتبہ کی آمد۔ پیپ و خون۔ کھڑا جس سے جوتہ پیوند لگایا جائے۔ الجیثة۔ آنا۔ ج۔ جیات۔ جآب (ض) جیثا۔ البلاد: طے کرنا القمیص: گریبان بنانا۔</p>	<p>جاء (ن) جؤفا: اچھی یا بُری چیز کا طلب کرنا۔ العجام: پیالہ۔ ج۔ جآمات و أجوام و أجؤم و جؤم۔ الجؤیمة: جام کی تصویر۔ جان (ن) جؤفا: کالا ہونا۔ تجؤن۔ باب العروس: دولہن کے دروازہ پر سفیدی پھیرنا۔ باب المیت: سیاہ کرنا۔ التجؤن۔ سہ۔ سفید۔ سیاہ۔ سرخ خالص سبزی جس کی سبزی سیاہی مائل ہو۔ دن من الخیثیل والابل: بنت کالا۔ ج۔ جؤن۔ الجؤنة: غروب کے وقت کا آفتاب۔ تار کول لاہو اٹکا۔ کونٹہ۔ الجؤنة: چڑے سے منڈھی ہوئی نوکری۔ ج۔ جؤن۔ الجؤناء: آفتاب۔ ہانڈی۔ سیاہ اور سفید۔ الجؤئی: ظاہر نہ کی ایک قسم جس کا سینہ اور بازو کالا ہوتا ہے۔ جآہ (ن) جؤفا۔ الرجل بالمکروه: ناپسند طریق سے پیش آنا۔ جؤهہ تجؤفہا و آجآهہ إجآهہ: صاحب مرتبہ بنانا۔ تجؤہ: بڑا ہونا۔ تکلف بڑا ہونا۔ الجآہ و الجآهة: تدر۔ شرف۔ بندی۔ مرتبہ۔ الجؤھر: وہ چیز جو قائم بالذات ہو اور عمل کا تحتاج نہ ہو۔ اس معنی میں یہ عرض کا مقابل ہے۔ ہر وہ چیز جس سے سفید چیز نکلی جائے۔ واحد (جؤھرة) ج۔ جؤاھر۔ جوہر الشئی: چیز کی اصلیت۔ جوہر السیف: کھوار کا جوہر۔ الجوہر الفرد: وہ چیز جو قابل انقسام نہ ہو۔ الجوہر العلویة: الطاک۔ ستارے۔ ارواح۔ الجؤھوی: جوہر کی جانب منسوب۔ لازم و ضروری۔ اس معنی کے لحاظ سے اس کا مقابل عرض ہے۔ جوہر کلیمان والاور بیچنے والا۔ جؤئی تجؤیة۔ السقاء: جگہ میں پیوند لگانا۔ الجؤی: آسمان و زمین کا درمیانی حصہ۔ کشادہ</p>
--	--	--

<p>الجینل: لوگوں کا ایک گروہ۔ صدی۔ ایک زمانہ کے لوگ۔ ج۔ اخیال و جیلان۔ الجینلم: چاند۔ الجینہو: ایک قسم کی کھس۔ الجینہل و الجینہلہ: انگارہ ہلانے کی کڑی۔ کرمانی۔ صفحہ جینہل: بڑا پتھر۔ الجینم: حروفِ ہجاء کا پانچواں حرف۔ (فد کرو مؤنث) ایک قسم کا ریشی کپڑا۔</p>	<p>صفت (جیاط) بحملہ: بوجھل پانا۔ الجینقر: بحر۔ الجینعم: بحر کا۔ جافت (ض) جینفا و جینقت و تینقت و اجتافت و انجافت۔ الجفہ: بدودار ہونا۔ الجینفہ: میت کا بدودار ہونا۔ ج جینف و انجاف۔ الجینقر: قوی شیر۔ جینفل: نام ماہزی القعدہ۔</p>	<p>الجینش: دم: لکڑی جیوش۔ الجینش: ایک قسم کی لمبی نباتات کا نام ہے۔ الجیناش: متحرک و مضرب۔ جاص (ض) جینضاً و جینضاً تینضاً۔ عنه: منحرف ہونا۔ ہٹ جانا۔ جالتضہ: نخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ الجینضہ: دائیں بائیں جھکاؤ۔ الجینض و الجینضی: تکبیر و غرور کی مجال۔ جیاط (ض) جینطاناً: چلنے میں تکبر کرنا۔</p>
---	---	---



حَبَّةُ (ض) حَبًّا وَجَبًّا. — أَلْسُنٌ : رغبت کرتا۔

حَبِّ (س) حَبِّبَ (ك) إِلَيْهِ : محبوب ہونا۔
حَبِيْبَةٌ : النِّسْ : محبوب بنانا۔ اور کہا جاتا ہے
”حَبِيْبِيْ إِلَيْهَا“ اس نے مجھ کو اس کا محبوب بنایا۔
حَبِّبَ الْقُرْبَىةَ : بھرتا (حَبِّبَ وَأَحَبَّ) الزَّرْعُ :
دانے دار ہونا۔

حَابَهُ مَحَابَةً وَجَبَاتًا : ہام رغبت کرتا۔ رغبت
ظاہر کرتا۔

أَحَبَّهُ : رغبت کرتا۔ یہ حب سے زیادہ مستعمل
ہے۔ صفت قاطعی۔ (مُحِبِّبٌ) اور صفت مفعولی
(مُحَبِّبٌ وَمُحَبَّبٌ)

تَحَبَّبَ إِلَيْهِ : رغبت و دوستی ظاہر کرتا۔
تَحَبَّبَ مِنَ الشَّرَابِ : بھرنے سے ٹھکے کی مانند
پھول جانا۔

تَحَابَ الْقَوْمُ : ایک دوسرے سے رغبت
کرتا۔

إِسْتَحَبَّهُ : رغبت کرتا۔ اچھا سمجھنا۔ کہا جاتا ہے
”إِسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ“ اس نے کفر
کو ایمان پر فضیلت دی۔

الْحَبُّ ج حَبُّوْبٌ وَحَبَّانٌ : دانہ۔ واحد
(حَبَّةٌ) ج حَبَّاتٌ۔ حَبُّ الْعَصَامِ : اولہ۔ حبة
القلب : دل کا دانہ یا روح۔ الحَبَّةُ : دو (۲) جو
کے برابر ایک وزن کا نام۔ دینار کا سولہواں حصہ۔
الحَبَّةُ الْمُخَضَّرَاءُ : بِن (ایک دو کا نام) الحَبَّةُ
السَّوْدَاءُ : کلوٹی۔

الْمَحَبَّةُ : مرغوب چیز کی طرف طبیعت کا
میلان۔

الْحَبِّبُ : ہم : دوست۔ عاشق۔ محبوب۔ ج
أَحْبَابٌ وَحَبَّانٌ وَحَبِيْبَةٌ وَحُبٌّ وَحُبُوْبٌ۔

الْحَبُّبُ : ہم : بڑا گھڑا یا مکان۔ ج حَبَابٌ وَحَبِيْبَةٌ
وَأَحْبَابٌ۔

الْحَبِيْبَةُ : انگور کا بیج۔ معشوق۔ معشوقہ۔ ج حَبِيْبٌ۔
کہا جاتا ہے ”هَذَا حَبِيْبُكَ“ یہ وہ چیز ہے جس کا دل
جانا تمہیں محبوب ہے۔ ”وَنَعْمَ وَحَبِيْبَةٌ وَكِرَامَةٌ“
جیسا کہ کہا جاتا ہے ”حَبَابٌ وَكِرَامَةٌ“

الْحَبِيْبُ : دانوں کی ہمواری۔ () —
وَالْحَبَابُ : بلبہ۔ حَبَّبَ الْمَاءَ أَوْ الرَّمْلَ وَ
جَبَبَهُ : پانی یا ریت کا بڑا حصہ۔

الْحَبِيْبَاتُ : ایتنا۔ کہا جاتا ہے۔ ”حَبَابُكَ اِنْ
تَفَعَّلَ كَذَا“ تمہاری ایتنائی کو شش یہ ہے کہ تم
ایسا کرو۔

الْحَبَابُ : دوستی۔ محبت۔ محبوب۔ سانپ۔ اُمُّ
حَبَابٍ : دنیا۔

الْحَبَابَةُ : ایک قسم کا سیاہ آبی کیزان۔ حَبَابُ
الْحَبِيْبِ : عاشق۔ معشوق۔ ج أَحْبَابَةٌ وَأَحْبَاءُ
وَأَحْبَابٌ۔ اَبُو حَبِيْبٍ : بھتا ہوا بکری کا بچہ۔ اُمُّ
حَبِيْبٍ : بکرگٹ۔

الْحَبَابُ : حب : کا اسم مبالغہ : گھڑوں اور
مٹکوں کا بنانے والا۔ یا بچنے والا۔

الْمَحَبَّةُ : ۔ فا۔ کہا جاتا ہے ”إِمْرَأَةٌ مَحْبِبةٌ
لِزَوْجِهَا وَمَحْبِبةٌ لَهُ“

اُمُّ مَحَبَّبٍ : سانپ۔
الْمَحَبَّبُ : لومڑی، گھٹے بدن کا پستہ۔ قد۔ ج
حَبَابِيْرٌ

الْحَبِيْبَةُ : بھل یا زنج ہونے کی وجہ سے تنگ
دلی۔

الْحَبِيْبُكَ وَالْحَبِيْبَاتِكَ : کہہ۔

الْمَحَبَّبُ وَالْمَحَبَّبَاتُ : کم ہوش۔

الْحَبِيْبُ : ایک قسم کا سانپ جس کی دم نہیں

ہوتی۔

حَبِيْبُهُ (ض) حَبِيْبًا۔ بِالْعَصَاءِ : لاشعری سے
مارنا۔ () — وَأَحْبَابُ (الْأَمْزُ) : اچانک ظاہر ہونا۔
قريب ہونا۔ ظاہر ہونا۔

حَبِيْبٌ (س) حَبِيْبًا وَحَبِيْبٌ (ف) حَبَابًا :
سوچے ہوئے بیٹ والا ہونا۔ صفت (حَبِيْبٌ)

الْحَبِيْبُ : ہم : بیگلیاں جو سدہ کی شکل میں ہو
جائیں۔ اُونٹ کی کمر کا داغ۔

الْحَبِيْبُ : لوگوں کا گروہ۔ لوگوں کے جمع ہونے
کی جگہ۔

حَبَبَتْ حَبِيْبَتُهُ الْمَاءَ : پانی کا آہستہ بہنا۔
النَّازُ : آگ جھڑکانا۔

الْحَبَابُ : پستہ۔ بد نما۔ بد شکل۔
حَبَابٌ۔

الْحَبَابُ : اُمُّ حَبَابٍ : بھتو۔ وہ چیز جو
بھتو کی دم میں آگ کی مانند گھلائی رہے۔ اور اسی
سے نازِ الحَبَابِ ہے جس کو ضعف و کمزوری
میں بطور مرض کے استعمال کرتے ہیں۔ نازِ
الْحَبَابِ : چنگاری جو گھوڑے کے دم سے پھڑ
وغیرہ پر ٹھوکر گرنے سے نکلے۔

الْمَحَبَّبُ : بد غذا۔

الْحَبِيْبَةُ : تیزوزن حَبِيْبٌ۔

الْحَبَابُ : گھٹے بدن کا پستہ۔ قد۔

حَبَبًا : حَبُّ اور ذَا اسم اشارہ سے مرکب
کلمہ ہے جو درج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور
ہر صورت میں یہی معنی بولا جاتا ہے۔ (حَبَبَةٌ)
کسی سے ”حَبَبًا“ کہنا۔

حَبِيْرٌ (ن) حَبِيْرًا۔ الشَّمْسُ : مزین کرتا۔ منتقل
کرتا۔

حَبِيْرَةٌ (ن) حَبِيْرًا وَحَبِيْرَةٌ وَأَحْبِيْرَةٌ : خوش

الحبائیس: اونٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھری میں باندھ کر رکھے جائیں۔ امور خیر میں وقف شدہ چیز (حبیسہ) کی جمع ہے۔
 الحبیس: قیدی — من العیال: جملہ کے لیے وقف شدہ گھوڑا۔ حبس دنیا سے بے تعلق آدمی۔ حبس خساء
 الحبسۃ: قید خانہ۔ عابدوں زاہدوں کے رہنے کی جگہ۔ حبس حبائیس۔
 حبس (ن) حبسًا و حبسًا حبس و احتبس۔ الشئ: جمع کرنا۔
 احتبست المرأة: جمی پتہ جانا۔
 تحبست القوم: اکٹھا ہونا۔
 الحباسة حبسات و (الاحتبوس) والاحتبوس حب احتبیس: تلغف قبولوں کے لوگ۔
 الحبش والحبشہ: تلک حبش کا بشہ واحد (حبشی) حب حبشان۔ الحبشہ: تلک حبش جس کو آج کل ابی سینیا کہتے ہیں۔
 الحبشۃ: سخت کالا اونٹ۔ سیاہ رنگ کی بڑی چوٹی۔
 الحباشیۃ: عقاب۔
 الاحتبس: حبشی۔ حب احتبایش۔
 الحبشان: بڑی کی ایک قسم۔
 حبص (ض) حبصًا و حبص (س) حبصًا۔ القلب: دل کا سخت دھڑکنے کے بعد ساکن ہونا۔
 الزجل: مرنا۔ المسهم: تیر۔ تیر کا بھینکنے والے کے سامنے ہی گرتا اور سیدھانہ جانا۔
 "فلان بالوتر" آواز نکلنے کے لیے حرکت دینا۔
 حبص (ن) حبصًا۔ ماء البئر: کم ہونا۔
 حقه: باطل ہونا۔ المسهم: تیر کا بھینکنے والے کے سامنے ہی گرتا اور سیدھانہ جانا۔
 الغلام: لوگوں کے تلک گمان کے خلاف ہونا۔
 احتبص: حقه: باطل کرنا۔ البئر: پانی شتم کرنا۔
 الحبص: مر۔ رگ کی تیز حرکت۔ کہا جاتا ہے "ماہ حبص ولا نبص" یعنی اس کے اندر حرکت نہیں۔

حبوت۔
 الخبز: ایک قسم کا آبی پرندہ۔ حب حجاج و حجاجیہ۔
 الخبز: زرخاب۔
 الخبز جمل: موٹے ہونٹ والا۔
 الخبز: کینہ۔
 الخبزوف: بال بچوں کے لیے کمائی کرنے والا۔
 الخبز قس: بڑی پتی لڑکیاں۔ ڈبلے پتلے بکری کے بچے۔
 الخبز قس: زراونٹ۔ چھوٹا اونٹ۔
 الخبز قس: چھوٹا اونٹ۔ پست قد۔ گھٹے بدن والا۔
 الخبز کھی: چھتری۔ غلیظ بادل۔ بتدریت۔ کہا جاتا ہے "قوم خبز کھی" ہلاک شدہ قوم۔
 خبزوم خبزومہ: اتار کے دانوں کا رس نکالنا۔
 المخبزم: اتار کے دانوں کا رس۔
 حبسہ (ض) حبسًا و محبسا: قید کرنا۔
 عن الشئ: روکنا۔ الشئ: پورے طریقے سے حفاظت کرنا۔ الشئ بالشئ: ڈھانپنا یا احاطہ کرنا۔ المال علی کذا: وقف کرنا۔
 احتبس و حبس۔ المال: اللہ کے راستہ میں وقف کرنا۔
 حابسة محابسة: روک رکھنا۔
 تحبس و احتبس۔ فی الکلام: رک جانا۔
 علی کذا: محدود رکھنا۔ و احتبسہ: روک رکھنا (لازم و متعدی) احتبس الرجل: قیدی بنانا۔
 الحبس: حب حبوس و (المحبس) حب محابیس: قید خانہ۔
 الحبس: پلگ پوش۔ وہ لکڑی یا پتھر جو پانی کے بہاؤ کے روکنے کے لیے رکھا جائے۔ حب احباس۔
 الحبس: واحد حبایس و (المحبس) واحد حبوس: یا حبیس: بنادے۔ وقف شدہ چیز۔
 الحبسۃ: ہنگو کرنے میں دشواری۔
 الحابسة۔ الحابیس کا مؤنث۔ اونٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھری میں باندھ کر رکھے جائیں۔

کرنا۔ اجزات الارض: پیداوار کا زیادہ ہونا۔
 حبیر (س) حبیرًا و حبیرًا: خوش ہونا۔ (س) حبیرًا الجوح: زخم کا اچھا ہونا اور کچھ اثر باقی رہنا۔ الاسنان: زرد ہونا۔ الارض: پیداوار کا زیادہ ہونا۔
 حبیر۔ الدوآة: روشنائی ڈالنا۔ الکلام او الخطا والشعر: عمدہ ہونا۔
 حبیر: پھوسوں کے کاٹے کا نشان والا ہونا۔
 تحبیر: مزین ہونا۔ عمدہ ہونا۔ المسحاب: ظاہر ہونا اور پھیلنا۔
 الحبیر والحبیر: تلک عالم۔ خوشی و نعمت الحبیر الاعظم: پوپ۔ بیوروں کے نزدیک کاہنوں کا سرور۔ حب احتبار و حبیر۔ الحبیر: روشنائی، خوبصورتی۔ نقش و نگار۔ دانتوں کی زردی حب حبیر۔ کہا جاتا ہے "فلان حسن الحبیر والسیر" یعنی فلاں خوبصورت اچھی دانت والا ہے۔ "وفلان لیس له حبیر" یعنی فلاں کا کوئی ٹیل و نظیر نہیں "و ذهب حبیرہ و سینوہ" یعنی اس کی رونق و ہیئت جاتی رہی۔
 الحبیر۔ مر۔ اثر۔
 الحبیرة۔ مثلثة الحاء۔ دانتوں کی زردی۔
 الحبیرة و الحبیرة: ایک قسم کی بینی چادر۔ حب احتبار و حبیرات و حبیر۔
 الحبیرة: خوشی۔ نعمت۔ ہر عمدہ راگ۔
 الحبیر والحبیر۔ من الغیاب: بنیاد نمونہ۔
 چادر۔ حبیر کی جمع حبیر ہے۔
 الحبیر۔ حب حبیرات و (الحبیر) حب حبیر: وارغ۔ نشان۔ اثر۔ کہا جاتا ہے "بجلدہ حبیرًا الضرب" اس کی کھال میں مارا اثر ہے "وفی یدہ حبیرًا العمل" اس کے ہاتھ میں کام کرنے کا اثر ہے۔
 المخبیرة و المخبیرة و المخبیرة: دوات۔ حب محابیر۔
 المخبیرة: امامت۔
 الحابیر: بیدکاروں کی مجلس۔
 المخبیر: سرخاب۔ حب حبیرات۔
 الحبیر و المخبیر و الحبیر: سرخاب کا پتہ۔ حب حبیر۔ کذاب (حبیرت) خالص

<p>حَتَّاءٌ (س) حَتَّاءٌ: خالص الاصل ہوتا۔ صفت (حَتَّاءٌ)</p> <p>حَتَّاءٌ (ض) حَتَّوْداً: بِالْمَكَانِ: اقامت کرتا۔</p> <p>حَتَّاءٌ: الشَّقِيُّ: خالص اور نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا۔</p> <p>الحَتَّاءُ والحَتَّاءُ: مِنَ الشَّقِيِّ: اصل دھو کر کہا جاتا ہے "عين حَتَّاءٌ" پانی ختم نہ ہونے والا چشمہ۔</p> <p>المَحْتَدُ: اصل۔ کہا جاتا ہے "فلان كريم المَحْتَدُ" فلان كريم الاصل ہے۔</p> <p>حَتَّوْرٌ (ان ض) حَتَّوْرًا وْحَتَّوْرًا: باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ تیز نگاہ سے دیکھنا۔ تھوڑا تھوڑا خوراک دینا۔ حتر لہ شیفاً: تھوڑا دینا۔</p> <p>الهِلَّةُ: نان و نقد میں منجی کرنا۔ کہا جاتا ہے "ما حَتَّوْرَتِ اليَوْمِ شَيْئًا" میں نے آج کچھ نہیں کھلایا مجھے آج کچھ حاصل نہیں ہوا۔</p> <p>أَحْتَوْرَ: الشَّقِيُّ: مضبوط کرنا۔ الزَجْلُ: تھوڑی بھلائی یا تھوڑی بخشش والا ہونا۔</p> <p>عَلَيْتَا الرُّوقِ: کم کرنا یا روک لینا۔</p> <p>حَقْرٌ: نان نقد میں کمی کرنا۔ التَّيْمَةُ: گھر کے گرد گھیرا لینا۔</p> <p>الحَقْرُ والجَحْرُ والحَقْرَةُ: تھوڑی چیز یا تھوڑی بخشش۔</p> <p>حَتَّازٌ: الشَّقِيُّ: کنارہ۔ گھیرا۔ جیسے "حَتَّازُ الأُذُنِ" کان کا کنارہ۔ "حَتَّازُ الظَّفَرِ" ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔ "حَتَّازُ المُشْجَلِ وَالغُرْبَالِ" چھٹی کا گھیرا۔ ج حَتَّوْرٌ۔</p> <p>الحَقْرَةُ: ایک بار پتے کا روہ چوسنا۔</p> <p>الحَقِيْرَةُ: عند البعض الحَقِيْرَةُ: کھانا جو عمارت کی تیاری پر کھلایا جائے۔</p> <p>المُحْتَوِرُ: اہل و عیال پر نان نقد میں منجی کرنے والا۔</p> <p>حَتَّوْرُ حَتَّوْرَةَ الجِرَادِ: کھانے میں آواز نکالنا۔</p> <p>تَحْتَوْرُ القَوْمِ: اکٹھا ہونا۔</p> <p>المُحْتَوِرُش: ہلکا ہلکا پست لڑاکا۔</p> <p>المُحْتَارُش: بچے کی حرکتیں۔ کہا جاتا ہے "ما احسن حَتَّارِش هَذَا الصَّبِيِّ" اس بچے کی</p>	<p>تَحَاتَّ تَحَاتًّا وَانْحَتَّ وَانْحَتًّا: الورقُ مِنَ الشَّجَرِ: جھڑپانا۔ شغرةً عَنْ رَأْسِهِ: کرنا۔ الأَشْنَانُ: کھوکھلا ہو کر کرنا۔</p> <p>الْحَتُّ: سہ۔ غرہ نڈی۔ الفرس الحت: تیز رفتار گھوڑا۔ ج أَحْتَات۔ کہا جاتا ہے "تَوَكَّؤُهُمْ حَتَّابًا أَوْ حَتَّافًا" یعنی انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ "وَمَا لِي بَدَيْتُ مِنْهُ حَتًّا أَوْ حَتَّانَةً" یعنی اس میں سے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔</p> <p>الحَقَّتْ: درختوں کی ترابی جس سے بچے جھڑپ جاتے ہیں۔</p> <p>الحَتَّاتُ: بگھری ہوئی چیز۔ چورہ۔ ریزہ۔</p> <p>الحَتَّاتُ: شور و غوغا۔</p> <p>الحَتَّوْرُ والمَحْتَاتُ: مِنَ النَّخْلِ: بھجور کا درخت جس سے کچی بی بھجوریں گر جاتیں۔</p> <p>حَتَّى: حرف جار ہے۔ اتنا پر دلالت کرتا ہے جیسے "أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا" یعنی میں نے مچھلی کو اس کے سر تک کھلایا۔ اور "ان" مصدر کی یہ تقدیر سے فعل مضارع پر داخل ہوتا اور غایت کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے "مِيَزَتْ حَتَّى أَدْخَلَ الصَّدِيقَةَ" یعنی میں چلا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اور یا بیان علت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جیسے "تَوَهَّبْتُ حَتَّى اتَّوْبَ" یعنی میں نے توبہ کرنے کے لیے ذیبا سے بے رنجی اختیار کی۔ اور کبھی حرف عطف بمعنی داو ہوتا ہے جیسے "أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا" میں نے مچھلی کو اور اس کے سر کو کھلایا۔ اور کبھی حرف ابتدا ہوتا ہے۔ جیسے "فَوَاعَجِبْنَا حَتَّى كَلَّيْتُ نَسِيئِي" بڑا تعجب ہے کہ کلب مجھے گالی دینے لگیں۔</p> <p>حَتَّامٌ: کب تک اس کی اصل حتی ما ہے۔ "ما" استہما یہ کالف حذف کر دیا گیا ہے۔</p> <p>حَتَّاءٌ (ف) حَتَّاءٌ وَأَحْتَأُ: العقدة: گرہ باندھنا۔ الثوبُ: کپڑا سینا۔ الجدادُ: دیوار مضبوط کرنا۔ الشَّقِيُّ: لگاتار دیکھنا۔</p> <p>الجَحْفَلُ عَنِ الدَّابَةِ: بوجہ آتارنا۔ المرأةُ: جماع کرنا۔ الرجلُ: بارنا۔</p> <p>حَتَّحَتْ: جلدی کرنا۔</p> <p>تَحْتَحَتَّ: الورقُ: جھڑپنا۔</p>	<p>جھٹ والا ہوتا۔ صفت (حَابِنٌ وَمَحْبُونٌ وَأَحْبِنُ) عَلَيْهِ: غم سے بھرنا۔</p> <p>أَحْبِنَةُ: الداءُ: سوجے ہوئے پیٹ والا کرنا۔</p> <p>العَحْبِنُ والعَحْبِينُ: کینہ کا درخت۔</p> <p>أَمَّ حَبْنِينَ وَالْحَبْنِيَّةَ: گرجک کے مشابہ ایک جانور۔</p> <p>الجَحْنِيُّ: بندر۔ پیپ سے بھرا ہوا پھوڑا۔ ج حَبْنُونٌ۔</p> <p>حَبْنًا (ان) حَبْنًا: قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَبْنَتُ الوِالي الخَمْسِينَ" میں پچاس سال کے قریب ہو گیا۔ الوَلْدُ: چوتروں کے بل گھسنا۔ السفينةُ: جاری ہونا۔ حَبْنًا مَا حَوَّلَهُ: حفاظت کرنا اور منع کرنا۔ الشَّقِيُّ لَهُ: پیش آنا۔ السَّهْمُ: نشانہ خطا کرنا۔ ہ کَلَّوْا بِكَلِّدًا: بغیر کسی بدلہ کے دینا۔ هَعَن كَلِّدًا: منع کرنا۔</p> <p>حَبْنَاهُ: حفاظت کرنا اور منع کرنا۔</p> <p>حَابِنِي مُحَابَاةً وَجَبَاةً: الرجلُ: مدد کرنا۔ دوسروں کے علاوہ مخصوص کرنا۔ هَفِي البَيْعِ: سہولت برتنا۔ القاضِي زَيْدًا فِى الحَكْمِ: انصاف سے ہٹ کر اکل ہونا۔</p> <p>أَحْبِنِي: الرامِي: نشانہ سے خطا کرنا۔ کہا جاتا ہے "زَمِي لَأَحْبِنِي" اس نے تیر پھینکا اور نشانہ سے خطا کی۔</p> <p>إِحْتَبِنِي: اجتناباً: بالثوبِ: کسی کپڑے میں لپٹ جانا۔ پینہ اور پنڈلیوں کو کسی کپڑے سے باندھ لینا۔</p> <p>الجَبَاةُ والجَبَوَةُ والحَبَوَةُ والحَبْوَةُ: عطية۔ الجَبَاةُ: عورت کا سر۔</p> <p>الحَبَوَةُ والعَبْوَةُ: وہ کپڑا جس سے پینہ اور پنڈلیوں کو باندھ لیا جائے۔ ج حَبْنِي وَجَبْنِي۔</p> <p>الحَبْنِي وَالْحَبْنَا: گھربا دل جو زمین سے قریب ہو۔</p> <p>الحَابِي: فا: گردن تک باندھ کنڈھوں والا۔</p> <p>حَتَّ (ن) حَتَّاءُ: الشَّجَرُ: بچے بھاڑنا۔ جھال آتارنا۔ الشَّقِيُّ عَنِ الثَّوْبِ: رگڑ کر دور کرنا۔ عَنِ الشَّقِيِّ: ہٹا دینا۔ الورقُ او القشْرُ عَنِ الشَّجَرِ: بچے جھڑپنا یا جھال کرنا۔</p>
--	--	--

ظاہر ہو۔ الحاجب حج حُجَّاب و حَجَبَة: دربان۔

المحجَّابَة: درباری۔

المحجَّوْب: اندھا۔

حَجَّجَ حَجَّجًا: گفتگو سے رکنا۔ بالمکان: اقامت کرنا۔ الزَّجَلُ: بچھلے پاؤں واپس ہوتا۔

حَجَّوْرَة (ن) حَجَّوْرٌ و حَجَّوْرَانَا: بطلیت الحاء فی المصدرین: منع کرنا۔ حَجَّوْر عَلَيَّه القاضی: بالی معاملات کے کرنے سے روکنا۔ حَجَّوْرًا و مَحَجَّوْرًا عَلَيَّه الامر: محروم کرنا۔

حَجَّوْر القمز: ہلاد والا ہونا۔ الطین: پتھر کی مانند سخت ہونا۔

أَحَجَّوْرَةٌ: بوجاہتا۔ چھپانا۔

تَحَجَّوْرٌ و اِسْتَحَجَّوْرٌ: پتھر کی مانند ہونا۔ الزَّجَلُ: جھرو بنانا۔ تَحَجَّوْرٌ عَلَيَّه فُلَانٌ: غلی ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "تَحَجَّوْرٌ مَا وَشَقَّه اللهُ" اللہ نے جس چیز میں اس کے لیے وسعت کی تھی اس کو اس نے اپنے لیے تنگ بنالیا۔ محروم کرنا۔ اِسْتَحَجَّوْرٌ عَلَيَّه: جرات دہلیری کرنا۔

اِسْتَحَجَّوْرٌ: جھرو بنانا۔ اِسْتَحَجَّوْرُ الشیء: اپنی گود میں لینا۔ بہ: بنا دینا۔

الحَجَّوْر: مع۔ روک۔ من العین:

آگہ کا خانہ (والْحَجَّوْرُ وَالْحَجَّوْرُ) گود۔ کہا جاتا ہے "نَشَأَ فُلَانٌ فِي حَجَّوْرِ فُلَانٍ" فُلَانٌ کی پرورش فُلَان کی گود میں ہوئی۔ حرام۔ کہا جاتا ہے

"هَذَا حَجَرٌ عَلَيَّكَ" یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ و حَجَّوْرُ آلِهِ: یعنی دفع ہو۔ عرب اس کو اس وقت بولا کرتے ہیں جبکہ کسی چیز کو مکروہ سمجھیں۔

الحَجَّوْرُ: عقل۔ گھوڑی۔ حج "حَجَّوْرُ و حَجَّوْرَةٌ و أَحَجَّوْرٌ۔

الحَجَّوْرُ: پتھر حج أَحَجَّوْرٌ و حَجَّوْرٌ و حَجَّوْرَةٌ و أَحَجَّوْرٌ کا جاتا ہے "القَمَّه العجور" یعنی اس نے مسے لاجواب کر دیا۔ اور

کہا جاتا ہے "اهلُ الحَجَّوْرِ و المَقْدَرُ" یعنی دیہات کے رہنے والے لوگ۔ الحَجَّوْرَان: سونا چاندی۔ أَحَجَّوْرُ النعلِ: وہ عمرہ گھوڑے جو

ذوات الحَجَّوْرَةِ۔ الحَجَّوْرَةُ: کان کی لو۔

الحَجَّوْرَةُ: بالی۔ کان کی لو۔

الحَجَّوْرَةُ: دلیل۔ یہاں حج حَجَّجَ و حَجَّجَ۔

الحَجَّجَ: اہرد کی ہڈی۔ حج حَجَّجَ و اِحَجَّوْرَةُ و حَجَّجَ۔ حَجَّجَ الشَّمْسِ: آفتاب کا کنارہ۔

الحَجَّجِجُ: دلیل میں غالب آنے والا۔ وہ شخص جس کے زخم کو سلائی ڈال کر معلوم کیا جائے۔

المَحَجَّجُ: حج کرنے کی جگہ۔

المَحَجَّجَةُ: راستہ کار میمان۔ حج حَجَّجَ۔

المَحَجَّجَاجُ: بڑا بھگڑاؤ۔ زخم معلوم کرنے کی سلائی۔

المَحَجَّوْرُجُ: دلیل میں مطلوب۔ مطلوب و مقصود۔ حج کرنے کی جگہ۔

حَجَّجًا (ف) حَجَّجًا: بالشئی: خوش ہونا۔ عنہ الشئی: روکنا۔

حَجَّجِي (س) حَجَّجًا و حَجَّجًا و تَحَجَّجًا: بالشئی: نکل کرنا۔ فریفت ہونا۔

الحَجَّجِي: سزاوار۔ لائق۔ تم کہتے ہو "حَجَّجِي بَكذَا" وہ فلاں چیز کے لائق ہے۔ پناہ لینے والا۔ تم کہتے ہو "ہو حجی الہم" وہ ان لوگوں کے پاس پناہ لینے والا ہے۔

المَحَجَّجَا: پناہ لینے کی جگہ۔

حَجَّجِي (ن) حَجَّجَا و حَجَّجَا و حَجَّجِيَة:

چھپانا۔ اندر آنے سے روکنا۔ حَجَّجِي يَتَّهَمَانَا:

حائل ہونا۔ حَجَّجِي صَدُوْهُ: تنگ ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ فُلَانٌ يَتَّهَمُ لَلْأَمِيْرِ "فُلَانٌ امیر کا دربان ہے۔

تَحَجَّجِي و اِسْتَحَجَّجِي: چھپانا۔

اِسْتَحَجَّجِيَة: حاجب بنانا۔ دربان بنانا۔

أَلْحَجَّجَابُ: حج حَجَّجِي: پردہ۔ ہر وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔ تعویذ۔

حجَّابِ الشَّمْسِ: آفتاب کی روشنی۔ حجَّابِ القلبِ: پردہ۔ جودل اور پیٹ کے درمیان حائل ہے۔

الحَاجِبُ حج حَوَّاجِبٌ و حَوَّاجِبِيَة: اہرد

حَوَّاجِبِ الشَّمْسِ: آفتاب کی شعاعیں

الشَّمْسِ: چیز کا کنارہ۔ حاجبِ الشَّمْسِ:

آفتاب کا کنارہ جو طلوع ہونے کے وقت ابتدائے

حَفَا (ن) حَفَّوْا حَفَّي (س) حَفَّيْنَا و تَحَفَّيْنَا:

التراب: گراتا۔ ڈالتا۔ التراب: گراتا۔ لہ:

تَمَوَّرًا سَارِيًا۔ کہا جاتا ہے "حَفَّيْنَا وَجْهَهُ الرَّمَادُ" یعنی اس نے اسے شرمندہ کر دیا۔

"و حَفَّيْنَا وَجْهَ التَّرَابِ" یعنی وہ اس سے سہت لے گیا۔ اِسْتَحَفَّوْا: ایک دوسرے کے چہرے پر مٹی ڈالتا۔

العَفَا و العَفَى: بھوسہ کے ریڑھے۔ ڈالی ہوئی مٹی۔

العَفْوَاء: بہت مٹی والی زمین۔

العَفَى: لپ۔ حج حَفَّيْنَا

العَفَايَاء: جنگلی چوہے کا پوشیدہ سوراخ یا اس کے سوراخ کی مٹی۔

العَفْوَةُ: مٹی کا ایک حصہ۔ حج حَفَّيْنَا

حَجَّجِي (ن) حَجَّجًا: دلیل میں غالب ہونا۔

المَحَجَّجُ: سلائی لگا کر رکھنا۔ ہ: تصد کرنا۔ کہا

جاتا ہے "حَجَّجِي بَنُو فُلَانٍ فُلَانًا" یعنی فلاں کے پاس بنو فلاں نے بہت آمدورفت کی "و حَجَّجِي فُلَانًا" یعنی فلاں کے پاس بار بار آیا گیا۔ حَجَّجِي الْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّمَةِ: زیارت کرنا۔

صَفَتِ حَاجَجًا حج حَجَّجَ و حَجَّجِي و حَجَّجِيَة: مؤنث حَاجَجَةٌ حج حَوَّاجَجٌ حَجَّجِي عَلَيَّه: آنا۔

عن الامر: باز رہنا۔

حَاجَجَةٌ حَجَّجًا و حَجَّجِيَة: بھگڑا کرنا۔

حَجَّجِيَة تَحَجَّجِي جَا و أَحَجَّجِيَة اِسْتَحَجَّجَا: حج کرنے کے لئے بھیجنا۔

تَحَجَّجَانَا حَجَّجًا: باہم بھگڑا کرنا۔

اِسْتَحَجَّجِي: دعویٰ کرنا اور دلیل پیش کرنا۔

بِالشَّمْسِ: دلیل یا عذر بنانا۔ البیت: زیارت کرنا۔

اِسْتَحَجَّجِي: بھت طلب کرنا۔

الحَاجَجُ: فہ۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے والا۔ ام جمع بمعنی حَجَّجَاجُ۔ کہتے ہیں "قَدِيم الحَاجَجُ حَمِي المَشَاةُ" حاجی صاحبان آگے

یہاں تک کہ پیدل چل کر آنے والے بھی۔

الحَجَّجَةُ: حج کا اسم۔ سال۔

ذُو الحَجَّجَةِ: قمری سال کا بارہواں مہینہ حج

نیزھا کرنا۔ () واخْتَجَنَ الشَّيْءُ نُيْرُهُ
مگر کے ڈنڈے سے کھینچنا۔ کہا جاتا ہے اخْتَجَنَ
الْعَمَانُ اس نے بال کو جمع کیا۔ نیز اس نے منتشر
بال کو اکٹھا کیا اور اس کی اصلاح کی۔ اخْتَجَنَ
عَلَيْهِ رُوكِيتا۔

خَجَنَ (س) خَجَنًا بِاللِّدَارِ اقامت کرنا
_____ عَلَيْنِهِ وَبِهِ بھل کرنا۔

خَجَنَ مَرْجَانًا نُيْرَهَا بوجانا۔
الْحَجَنَ وَالْحَجْنَةَ: کبھی۔ نُيْرَهَا يَنْ
الْحَجْنَةَ: اپنے لیے مخصوص طریقہ سے جمع کی
ہوئی چیز۔ الْحَجَنَ: بچھڑی۔

الْاَخْحَجَنَ: نُيْرَهَا۔ کہا جاتا ہے "صقور
اَخْحَجَنَ الْمُخَالِبَ" شکر نُيْرُهُمے چنگل والا۔
مؤنث خَجْنَاءُ ج خَجْنٍ۔

الْحَجْنُونُ: کلال۔ کہتے ہیں "مِيزْنَا عَقَبَةَ
خَجْنُونًا" ہم لمبی اور درو درواز گھائی پر چلے۔

المِخْحَجَنَ وَالْمِخْحَجَنَةَ: نُيْرُهُمے سرو والا
ؤنڈا۔ نُيْرُهُمے سرو والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِخْحَجَنُ
مَالٍ" وہ مال کا یعنی اونٹوں کا بہترین تنظیم ہے۔
مَخْحَجَنُ الطَّائِرِ: بچھڑج۔

خَجَنًا (ن) خَجْنًا: نُيْرُهُمے _____ بِالْمَكَانِ:
اقامت کرنا _____ بِالشَّيْءِ: بھل کرنا _____ بِه
خَيْرًا: گمان کرنا _____ السُّوءَ: حفاظت کرنا
_____ خَجَاهُ: قصد کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ منع کرنا
_____ القَوْمَ: بدلہ دینا _____ الامْرَ: گمان کر کے
دعویٰ کرنا۔

خَجَنِي (س) خَجِي: بِه: فریفتہ ہو کر لازم
ہوتا۔

اَخْحَاهُ اِخْحَاءً: بگڈا۔ لائق بنانا۔ کہا جاتا
ہے "مَا اَخْحَاهُ بَكْدًا" وہ اس کے کس قدر
لائق ہے۔

خَاخَاهُ مُخْحَاخَةً: پہلی پیش کرنا۔ یا عقل
وزیر کی میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَاخَيْتَنِي
فَخَجْنُونُهُ" میں نے زیر کی میں اس کا مقابلہ کیا
اور میں غالب رہا۔

تَخَجَّنِي: بِالشَّيْءِ: فریفتہ ہو کر لازم ہوتا _____
بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے
"تَحَجَّيْتُمْ لِي هَذَا الْمَكَانَ" میں تم سے

پہلے اس جگہ میں پہنچ گیا اور وہاں پر جم گیا _____
الشَّيْءِ: قصد کرنا۔

اِخْحَجْنِي: الشَّيْءِ: چھپانا۔
تَخَاخَجُوا: آپس میں پہلی پیش کرنا۔

الْحِجْبِيُّ: عقل وزیر کی جمع اَخْحَاءُ۔
الْحِجْبِيَّةُ: کنارہ گوشہ۔ ج اَخْحَاءُ۔ پر وہ۔

الْحِجْبَا: وادی کا موڑ۔ زمین کا بلند حصہ۔ ج
اَخْحَاءُ وَحِجْبَا: الشَّيْءِ: کنارہ۔

الْحِجْبَاةُ: بارش کا پانی پڑنے کی وجہ سے ہلہ۔
ج حِجْبَا۔

الْحِجْبِيُّ وَالْحِجْبِيُّ: لائق۔
الْاَخْحَجِيَّةُ: بیٹیاں۔ پہلی۔ ج اَخْحَجِي وَأَخْحَجِ
۔ کلمۃ (مُخْحَجِيَّةٌ وَ مِخْحَجِيَّةٌ) پہلی دار کلمہ کہ

جس کے الفاظ بظاہر معنی کے مخالف ہوں۔ کہا جاتا
ہے "اللَّهُ (المُخْحَجَاةُ) انْ يَفْعَلَ كَذَا" یعنی وہ یقیناً

اس لائق ہے کہ ایسا کرے۔
حَدَّ (ن) حَدًّا وَحَدًّا: الدَّاءُ: حد مقرر کرنا

_____ الْمَذْنِبَ: حد جاری کرنا _____ الشَّيْءَ عَنْ
الشَّيْءِ: جدا کرنا _____ اللَّهُ عَثَا الشَّرَّ: روکنا۔ یاز
رکھنا۔ بھیرنا۔

حَدَّتْ (ن) حَدًّا وَحَدًّا: المرأةُ:
سوگ منانا۔ صفت (حَادَّةٌ) ج حَوَادٍ۔

حَدَّ حَدًّا وَحَدًّا وَحَدًّا: التَّسْكِينُ: تیز کرنا۔
حَدَّتْ (ض) حَدَّةً وَاحْتَدَّتْ: التَّسْكِينُ: تیز
ہونا _____ باریک دھار ہونا۔

حَدَّ (ض) حَدًّا وَحَدًّا وَحَدًّا: عليه: غضب
ناک ہونا۔

حَدَّدَ - الارضَ: حدود قائم کرنا _____ إِلَيْهِ
وَلَهُ: قصد کرنا _____ الامْرَ: معلوم کرنا _____

عَلَيْهِ: غھبناک ہونا _____ الزُّرْعَ: بارش مؤخر
ہونے کی وجہ سے پیچھے آگنا۔
حَادَّةٌ: دشمنی کرنا۔ باہم غھبناک ہونا۔ حَادَّتْ
ارضه ارضی: پڑوس میں ہونا۔

أَحَدًا: إِلَيْهِ النُّظْرَ: گھورنا۔ تیز نظر کرنا۔ أَحَدَاتٍ
المرأةُ: شوہر کے مرنے پر سوگ کرنا۔ صفت
(مُحَدِّدٌ مُحَدِّدَةٌ)

تَحَدَّدَ: بھم: دور ہے ہونا۔
تَحَادَّدَا: باہم غھبناک ہونا۔

اِحْتَدَّ: قوی ہونا _____ عَلَيْهِ: غھبناک ہونا۔
اِسْتَحَدَّ: دھار تیز کرنا۔ شرمگاہ کے بال
موڑنا۔

الْحَدُّ: دو چیزوں کے درمیان کی روک۔
تم کہتے ہو "حَادَّةٌ حَدَّادِي" اس کا گھر میرے

گھر کے پڑوس میں ہے۔ وَالْحَدُّ: کسی چیز کی
اتنا۔ اَلْحَدُّ مِنَ الشَّيْءِ: تلوار کی دھار _____

مِنَ الشَّرَابِ: شراب کی تیزی مِنَ الْاِنْسَانِ:
بدبہ اور غضب کی بنا پر جو کیفیت پیدا ہو۔ من
کل شئی: تیزی۔ حَدَّ الشَّيْءِ: جامع مانع تعریف۔
سراج حُدُودٌ وَ حُدُودُ اللَّهِ: طاعت الہی
واحکام شرعیہ۔

الْحَدَّ: ہ۔ ممنوع۔ کہا جاتا ہے "هذا امر
حَدَّدٌ" یعنی یہ امر ممنوع ہے اس کا کرنا جائز نہیں
"وهذا خيرٌ حَدَّدٌ" یہ خیر باطل و جھوٹ ہے "و
ذُوْنُ هَذَا حَدَّدٌ" اس کے ورے ممانعت ہے "و
حَدَّدَا انْ يَكُوْنُ هَذَا" اللہ کی پناہ کہ ایسا ہو۔

الجَدَادُ: حَدَّتْ المرأةُ كاصدر۔ سیاہ ماتی
لباس۔

الْحَدَادُ: تیزی والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ
حَدَادٌ" تیزی والا مرد۔ سکیں حَدَادٌ: تیز
چھری۔ ج أَحَدَّةٌ اور کہا جاتا ہے "حَدَادُكَ اَنْ
تفعل كَذَا" تمہاری اتھالی کو شش یہ ہے کہ تم
ایسا کرو۔

الحَدَاةُ: بیوی۔
الجَدَاةُ: بوباری۔

الْحَدِيْدَةُ: لوہا۔ مضبوط اور سخت لوہے کو
"ذَكَوْرٌ" اور نرم کو "اَنْثِي" اور "اَنْثِي" سے
تعبیر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "ہو حدیدی" وہ
میرا پڑوسی ہے۔ "و داری حَدِيْدَةٌ دارہ" میرا
گھر اس کے گھر کے پڑوس میں ہے۔

الْحَدِيْدُ: ج اِحْدًا و جَدَادُ: کائنے والا۔ کہا
جاتا ہے "سَيِّفٌ حَدِيْدٌ" کائنے والی تلوار۔
رَجُلٌ حَدِيْدٌ: تیز فہم یا سریع الغضب۔

الْحَدِيْدَةُ: لوہے کا ٹکڑا۔ ج حَدَايِدُ وَ
حَدِيْدَاتٍ وَ ج حَدَايِدَاتٍ حَدِيْدَةٌ

الْحَزَنُ: بل کی بیماری۔ الْحَدِيْدَةُ: بچھڑج۔
الْحَدَّادُ: بوبار۔ بوبار بچھڑج والا۔ دربان۔ جیلر۔ زور

<p>الْحَدَّاتُ: مَن تَكُونُ فِيهِ جَمَاعَةُ الْحَدَّيْنِ: جَمَاعَةُ الْمُحَدَّثُ: مَن كَتَبَ وَنَسَخَ وَاجْمَعَ خِلَافَ نَبِيِّ بِلَاغِ مَحَدِّثَاتِهَا مُنْحَدَّثُ الْقَوْمِ: قَوْمٌ كُنْتُمْ كَرَمَتُهُمْ جَدَّ</p>	<p>کے مقابلے میں بولتے ہیں تو میں کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں جیسے "أَحَدُنِي مَا قَدَّمُوا مَا حَدَّثْتُ" یعنی مجھ کو نے پرانے غموں نے گھیر لیا۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ ضمہ نہیں دیتے۔ حَدَّثْتُ عَنْ فُلَانٍ: روایت کرتا۔ ہ گَدَا وَبِكَلْبَا: خبر دیتا۔ بیان کرتا۔ حَادَثُهُ: مَن تَكُونُ فِيهِ حَادَثُ السَّيْفِ: کتوار کو جلا دیتا۔ اور اسی سے ہے "كُنْصَلُ السَّيْفِ حُدُوثٌ بِالْصَّفَالِ" مانند کتوار کی پھل کے کہ میں گھل کرنے سے جلا دیا گیا ہو۔</p>	<p>سلا۔ شراب فروش۔ سنند۔ الْمُحَدَّثُودُ: حد بندی کیا ہوا۔ حَدَّ (أَف) حَدَّ الشَّيْءُ عَنْهُ: پھیرنا۔ ہٹانا۔ حَدَيْتُ (س) حَدَّاً بِالْمَكَانِ: کسی جگہ میں جم کے رہ جانا۔ الیہ: پناہ لینا۔ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ: مہربانی کرنا۔ مدد کرنا۔ ظلم سے بچانا۔ عَلَيْهِ: غصبتاک ہونا۔</p>
<p>حَدَّجَ (ض) حَدَّجَا الْبَعِيرُ: اُونٹ پر کجاوہ باندھنا۔ الاحمالُ: باندھنا۔ الابلُ: دارغ لگانا۔ ہ مارا۔ حَدَّجَهُ بِالسَّهْمِ: تیر اندازی کرنا۔ ہ بالذنب: حسرت لگانا۔ کہا جاتا ہے "حَدَّجَهُ بِبَيْعِ سُوءٍ" اس نے ایسی بیچ اس پر لازم کر دی جس میں گناہ ہے۔ حَدَّجَ وَحَدَّجَ الْبَصْرَةَ: گھورنا۔ تیز دیکھنا۔ أَحَدَجَ الْبَعِيرُ: اُونٹ پر بوجھ لادنا۔ اُونٹ پر کجاوہ کسنا۔</p>	<p>حَادَثُهُ: مَن تَكُونُ فِيهِ حَادَثُ السَّيْفِ: کتوار کو جلا دیتا۔ اور اسی سے ہے "كُنْصَلُ السَّيْفِ حُدُوثٌ بِالْصَّفَالِ" مانند کتوار کی پھل کے کہ میں گھل کرنے سے جلا دیا گیا ہو۔ أَحَدَّاهُ: ایجاد کرنا۔ پیدا کرنا۔ أَحَدَّثُ الرَّجُلُ: پاخانہ کرنا۔ السَّيْفُ: کتوار کو جلا دیتا۔ تَحَدَّثْتُ بِالشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ: مَن تَكُونُ فِيهِ خَبْر دیتا۔ تَحَادَثُوا: باہم گفتگو کرتا۔ اِسْتَحَدَّثَهُ: پیدا کرنا۔ الخَيْرُ: نیا پانا۔ رَجُلٌ (جَدَّتْ) بُلُوكُ: بادشاہوں کا تھہ کو۔ الْحَدِيثُ وَالْحَدَثُ: اچھی گفتگو کرنے والا۔ الْحَدَّثُ: نئی چیز۔ خلاف سنت۔ نئی بات۔ دین میں نئی بات۔ پانچواں۔ ج حَدَّاتٌ وَأَحْدَاثُ الدَّهْرِ: زمانہ کے مصائب۔ الْحَدَثُ: جوان۔ ج أَحْدَاثُ وَحَدَثَانُ۔ الْحَدَاثَةُ: حَدَاثَةُ الْأَمْرِ: آغاز وابتداء الْحَدَثِيُّ: نئی۔ الْحَدَوُثَةُ: آغاز وابتداء الْحَدَثَانُ: آغاز وابتداء حَدَثَانِ الدَّهْرِ وَحَدَاثُهُ: زمانہ کی سختیاں۔ الْأَحْدَوُثَةُ: بِلَتِ الْفَسَادِ: کہانی۔ ج أَحْدَاثِيَّتُ۔ الْحَادِثُ: نوید چیز۔ قدیم کی ضد۔ ج حَوَادِثُ وَحَادِثَاتُ: حَوَادِثُ الدَّهْرِ: زمانہ کے مصائب۔ الْحَدِيثُ: ج حَدَاثٌ وَحَدَاثَةٌ: نیا۔ الْحَدِيثُ ج أَحْدَاثِيَّتُ وَحَدَثَانُ وَحَدَثَانُ: خبر۔ کہا جاتا ہے "صَادَرُوا أَحْدَاثِيَّتُ" یعنی وہ لوگ ختم ہو گئے صرف ان کی بات ہی بات باقی رہ گئی ہو۔ علم الحديث: نئی کریم کلام کے اقوال افعال واحوال بتانے والا علم۔ الْحَدِيثُ: بہت گفتگو کرنے والا۔</p>	<p>الْحَدَاثَةُ: دو سو الی کدال۔ ج حَدَاوُ حَدَّاءِ۔ الْحَدَاثَةُ: خیل۔ عوام حَدِيثِيَّةً کہتے ہیں۔ ج جَدَّوُ حَدَّاءُ وَحَدَّانُ۔ حَدَبٌ (س) حَدَبًا وَأَحْدَبٌ: الرَّجُلُ: کبڑا ہونا۔ صفت (حَدَبٌ وَأَحْدَبٌ) مَوْتٌ حَدَبِيَّةٌ وَحَدَبِيَّةٌ: ج حَدَبٌ وَأَحْدَبٌ۔ وَحَدَبِيَّةٌ: حَدَبٌ عَلَيْهِ: مہربان ہونا۔ حَدَبٌ وَأَحْدَبٌ: کبڑا ہونا۔ حَدَبُ الشَّيْءِ: کسی چیز کو ابھرا ہونا۔ تَحَدَّبٌ: کبڑا ہونا۔ عَلَيْهِ: مہربان پہ: تعلق رکھنا۔ المرأةُ: بچوں پر مہربانی کی وجہ سے دو سرا لگانے کرنا۔ إِحْدَوُذِبٌ وَتَحَادَبٌ: کبڑا ہونا۔ إِحْدَوُذِبُ الرَّمْلِ: لہا اور ٹیڑھا ہونا۔ الْحَدَبُ: سہ: کبڑا ہونا۔ موج۔ لہر۔ کھال کے اندر نشان۔ زمین کی اونچی جگہ۔ ایک قسم کی گھاس۔ الْحَدَبِيَّةُ: قَطْعُ كَسَالٍ: دشوار امور۔ لاش۔ الْحَدَبِيَّةُ: کبڑا ہونا۔ بیٹھنے میں کبڑا ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "فِي ظَهْرِ حَدَبِيَّةٍ" اس کی بیٹھ میں کبڑا ہونا ہے۔ مِنَ الْأَرْضِ: بلند و سخت جگہ۔ الْأَحْدَبُ: کتوار۔ ہاتھ کی ایک رگ کا نام۔ أَمْرٌ أَحْدَبٌ: دشوار کام۔ الْمَحْدَبُ: کبڑا۔ مِنَ الْخَطُوطِ: اُبھری ہوئی لکیریں۔ لہن (حَدَبَةٌ) ہماہور دو دو۔ الْحَدَبَاتُ: ڈیلی پٹی اُونٹنی۔ قَطْعُ كَسَالٍ: پستیا بلند زمین۔ ج حَدَابِيَّتُ۔ الْحَدَبِيَّةُ: بڑی پرچرا لگی ہوئی اُونٹنی۔ الْحَدَبِيَّةُ: مٹھے بدن کا پست قدم۔ حَدَّتْ (ن) حَدَّوْنَا: الامْرُ: واقع ہونا۔ حَدَّ اللَّهُ وَحَدَّوْنَا: نوید ہونا اور جب قَدَّمُ</p>
<p>الْحَدَّجُ: بوجھ۔ ج حَدَّجٌ وَحَدَّوْجٌ وَ أَحْدَاجُ () وَالْحَدَّاجَةُ: خانہ کی مانند عورتوں کی ایک سواری۔ ج حَدَّاجِيَّةٌ۔ الْحَدَّجُ: کجاوہ اور سخت اندر ران۔ کجاوہ بوزہ۔ أَبُو حَدَّيْبٍ: تعلق پرندہ کی کنیت۔ الْمُحَدَّجُ: اُونٹوں کے دارغ لگانے کا ادار۔ حَدَّرَ وَحَدَّرَ (ن و ك) حَدَّرًا وَحَدَّرُوا وَحَدَّرَاتُ الرَّجُلِ: مضبوط موٹا ہونا۔ الْجِلْدُ: سوجنا۔ حَدَّرُوا وَحَدَّرُوا: بھیر لینا۔ حَدَّرَ (ن و ض) حَدَّرًا وَحَدَّرُوا: بیچے اترنا۔ الشَّيْءُ: بیچے اترنا۔ اللِّغَامُ عَنْ حَنَكِهِ: بھکانا۔ الْعَيْنُ الدَّمْعُ: آنسو ہانا۔ الْقِرَاةُ فِي الْقِرَاةِ: تیزی سے پڑھنا۔ الدَّوَاءُ يُنْقِطُهُ: اسماں لانا۔ تَحَدَّرَ وَتَحَادَّرَ: اترنا۔ کہا جاتا ہے "زَيْتُ الدَّمْعِ يَنْتَحَدَّرُ عَلَيَّ لِخَبِيثِهِ" میں نے دیکھا کہ آنسو اس کی داڑھی پر بہ رہا تھا۔ الْحَدَّرُ: بیچے۔ کہا جاتا ہے "إِنِّي حَدَّرْتُ مِنَ الْحَبْلِ إِلَى الْمَدِينَةِ" میں پیڑ سے شہر کی طرف اترنا۔ الْجِلْدُ: سوجنا۔ الْحَدَّرُ: ڈھلوان جگہ۔ وہ جگہ جہاں سے اترنا جائے۔ آگہ کا بھینکا ہوا۔</p>	<p>تَحَادَثُوا: باہم گفتگو کرتا۔ اِسْتَحَدَّثَهُ: پیدا کرنا۔ الخَيْرُ: نیا پانا۔ رَجُلٌ (جَدَّتْ) بُلُوكُ: بادشاہوں کا تھہ کو۔ الْحَدِيثُ وَالْحَدَثُ: اچھی گفتگو کرنے والا۔ الْحَدَّثُ: نئی چیز۔ خلاف سنت۔ نئی بات۔ دین میں نئی بات۔ پانچواں۔ ج حَدَّاتٌ وَأَحْدَاثُ الدَّهْرِ: زمانہ کے مصائب۔ الْحَدَثُ: جوان۔ ج أَحْدَاثُ وَحَدَثَانُ۔ الْحَدَاثَةُ: حَدَاثَةُ الْأَمْرِ: آغاز وابتداء الْحَدَثِيُّ: نئی۔ الْحَدَوُثَةُ: آغاز وابتداء الْحَدَثَانُ: آغاز وابتداء حَدَثَانِ الدَّهْرِ وَحَدَاثُهُ: زمانہ کی سختیاں۔ الْأَحْدَوُثَةُ: بِلَتِ الْفَسَادِ: کہانی۔ ج أَحْدَاثِيَّتُ۔ الْحَادِثُ: نوید چیز۔ قدیم کی ضد۔ ج حَوَادِثُ وَحَادِثَاتُ: حَوَادِثُ الدَّهْرِ: زمانہ کے مصائب۔ الْحَدِيثُ: ج حَدَاثٌ وَحَدَاثَةٌ: نیا۔ الْحَدِيثُ ج أَحْدَاثِيَّتُ وَحَدَثَانُ وَحَدَثَانُ: خبر۔ کہا جاتا ہے "صَادَرُوا أَحْدَاثِيَّتُ" یعنی وہ لوگ ختم ہو گئے صرف ان کی بات ہی بات باقی رہ گئی ہو۔ علم الحديث: نئی کریم کلام کے اقوال افعال واحوال بتانے والا علم۔ الْحَدِيثُ: بہت گفتگو کرنے والا۔</p>	<p>الْحَدَبِيَّةُ: قَطْعُ كَسَالٍ: دشوار امور۔ لاش۔ الْحَدَبِيَّةُ: کبڑا ہونا۔ بیٹھنے میں کبڑا ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "فِي ظَهْرِ حَدَبِيَّةٍ" اس کی بیٹھ میں کبڑا ہونا ہے۔ مِنَ الْأَرْضِ: بلند و سخت جگہ۔ الْأَحْدَبُ: کتوار۔ ہاتھ کی ایک رگ کا نام۔ أَمْرٌ أَحْدَبٌ: دشوار کام۔ الْمَحْدَبُ: کبڑا۔ مِنَ الْخَطُوطِ: اُبھری ہوئی لکیریں۔ لہن (حَدَبَةٌ) ہماہور دو دو۔ الْحَدَبَاتُ: ڈیلی پٹی اُونٹنی۔ قَطْعُ كَسَالٍ: پستیا بلند زمین۔ ج حَدَابِيَّتُ۔ الْحَدَبِيَّةُ: بڑی پرچرا لگی ہوئی اُونٹنی۔ الْحَدَبِيَّةُ: مٹھے بدن کا پست قدم۔ حَدَّتْ (ن) حَدَّوْنَا: الامْرُ: واقع ہونا۔ حَدَّ اللَّهُ وَحَدَّوْنَا: نوید ہونا اور جب قَدَّمُ</p>
<p>حَدَّرَ (ن و ض) حَدَّرًا وَحَدَّرُوا: بیچے اترنا۔ الشَّيْءُ: بیچے اترنا۔ اللِّغَامُ عَنْ حَنَكِهِ: بھکانا۔ الْعَيْنُ الدَّمْعُ: آنسو ہانا۔ الْقِرَاةُ فِي الْقِرَاةِ: تیزی سے پڑھنا۔ الدَّوَاءُ يُنْقِطُهُ: اسماں لانا۔ تَحَدَّرَ وَتَحَادَّرَ: اترنا۔ کہا جاتا ہے "زَيْتُ الدَّمْعِ يَنْتَحَدَّرُ عَلَيَّ لِخَبِيثِهِ" میں نے دیکھا کہ آنسو اس کی داڑھی پر بہ رہا تھا۔ الْحَدَّرُ: بیچے۔ کہا جاتا ہے "إِنِّي حَدَّرْتُ مِنَ الْحَبْلِ إِلَى الْمَدِينَةِ" میں پیڑ سے شہر کی طرف اترنا۔ الْجِلْدُ: سوجنا۔ الْحَدَّرُ: ڈھلوان جگہ۔ وہ جگہ جہاں سے اترنا جائے۔ آگہ کا بھینکا ہوا۔</p>	<p>تَحَادَثُوا: باہم گفتگو کرتا۔ اِسْتَحَدَّثَهُ: پیدا کرنا۔ الخَيْرُ: نیا پانا۔ رَجُلٌ (جَدَّتْ) بُلُوكُ: بادشاہوں کا تھہ کو۔ الْحَدِيثُ وَالْحَدَثُ: اچھی گفتگو کرنے والا۔ الْحَدَّثُ: نئی چیز۔ خلاف سنت۔ نئی بات۔ دین میں نئی بات۔ پانچواں۔ ج حَدَّاتٌ وَأَحْدَاثُ الدَّهْرِ: زمانہ کے مصائب۔ الْحَدَثُ: جوان۔ ج أَحْدَاثُ وَحَدَثَانُ۔ الْحَدَاثَةُ: حَدَاثَةُ الْأَمْرِ: آغاز وابتداء الْحَدَثِيُّ: نئی۔ الْحَدَوُثَةُ: آغاز وابتداء الْحَدَثَانُ: آغاز وابتداء حَدَثَانِ الدَّهْرِ وَحَدَاثُهُ: زمانہ کی سختیاں۔ الْأَحْدَوُثَةُ: بِلَتِ الْفَسَادِ: کہانی۔ ج أَحْدَاثِيَّتُ۔ الْحَادِثُ: نوید چیز۔ قدیم کی ضد۔ ج حَوَادِثُ وَحَادِثَاتُ: حَوَادِثُ الدَّهْرِ: زمانہ کے مصائب۔ الْحَدِيثُ: ج حَدَاثٌ وَحَدَاثَةٌ: نیا۔ الْحَدِيثُ ج أَحْدَاثِيَّتُ وَحَدَثَانُ وَحَدَثَانُ: خبر۔ کہا جاتا ہے "صَادَرُوا أَحْدَاثِيَّتُ" یعنی وہ لوگ ختم ہو گئے صرف ان کی بات ہی بات باقی رہ گئی ہو۔ علم الحديث: نئی کریم کلام کے اقوال افعال واحوال بتانے والا علم۔ الْحَدِيثُ: بہت گفتگو کرنے والا۔</p>	<p>الْحَدَبِيَّةُ: قَطْعُ كَسَالٍ: دشوار امور۔ لاش۔ الْحَدَبِيَّةُ: کبڑا ہونا۔ بیٹھنے میں کبڑا ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "فِي ظَهْرِ حَدَبِيَّةٍ" اس کی بیٹھ میں کبڑا ہونا ہے۔ مِنَ الْأَرْضِ: بلند و سخت جگہ۔ الْأَحْدَبُ: کتوار۔ ہاتھ کی ایک رگ کا نام۔ أَمْرٌ أَحْدَبٌ: دشوار کام۔ الْمَحْدَبُ: کبڑا۔ مِنَ الْخَطُوطِ: اُبھری ہوئی لکیریں۔ لہن (حَدَبَةٌ) ہماہور دو دو۔ الْحَدَبَاتُ: ڈیلی پٹی اُونٹنی۔ قَطْعُ كَسَالٍ: پستیا بلند زمین۔ ج حَدَابِيَّتُ۔ الْحَدَبِيَّةُ: بڑی پرچرا لگی ہوئی اُونٹنی۔ الْحَدَبِيَّةُ: مٹھے بدن کا پست قدم۔ حَدَّتْ (ن) حَدَّوْنَا: الامْرُ: واقع ہونا۔ حَدَّ اللَّهُ وَحَدَّوْنَا: نوید ہونا اور جب قَدَّمُ</p>

یعنی سخت غضبناک۔ ح حوزئی و حوب الرجل
دوہل دہلاکت کو پکارنا اور آخر بناؤ کہتے۔

حوزئہ: غضبناک بنانا۔ حوزب السنان: تیز
کرنا۔

حازئہ حوزائہ و حازئہ لڑائی کرنا۔

أحوزب: الحوزب: جنگ بھڑکانا۔ فلاناً:
دشمن کے مال کے لوٹنے کیلئے رہنمائی کرنا۔
الصحل: بھگوتہ لگانا۔

قحازب و احوزب: القوم: جنگ کی آگ
بھڑکانا۔

إحوزئی احوزئہ: آدہ غضب ہونا۔ آدہ
شرارت ہونا۔ چت لیٹ کر آسمان کی طرف
ٹانگیں اٹھانا۔ المسکان: کشادہ ہونا۔

الحوزب: لڑائی۔ تم کہتے ہو "وقفث بینہم
حوزب" ان کے درمیان لڑائی واقع ہوتی کلمہ

مؤنث ہے کبھی مذکر استعمال کرتے ہیں اس کی
تفسیر حوزب۔ ح حوزوب۔ رجل حوزب: ہمارے

بھگپو۔ کہا جاتا ہے "انا حوزب لمن یحاربنی"
میں اس کا دشمن ہوں جو مجھ سے جنگ کرے۔

ذاز الحوزب: مشرکین کا ٹلک۔ اور وہاں کے
رہنے والوں کو (الحرہ یوں) کہتے ہیں۔

الحوزئہ: چھوٹا تیز۔ ح حوزاب۔ الحوزئہ: تیز
مارنا۔ مال چھیننا۔ فلو دین۔ جمع کا دن۔ ح

حوزبات و حوزبات
الحوزاب: چھوٹے تیزے کو اٹھانے والا چھوٹا

تیزہ بنانے والا۔
الحوزئہ: بیت جنگ۔

الحوزئہ: گون یا بورے کی مانند ایک برتن
چرواہے کا قھیلا۔

الحوزئہ و الحوزئہ: گرجت۔ اس کو تکون
مزاج کے لیے بطور مثال کے بولا جاتا ہے۔ ح

حوائح:
الحوزباء: زرہ کا حلقہ۔ پشت کا گوشت۔

الحوزب: ہلاکت و ہل۔
و أحوزبنا: کلمہ ہے جو میت پر رونے کے موقع

پر بولا جاتا ہے اور افسوس کیلئے استعمال کیا جاتا
ہے۔

المحوزب و المحوزب: بھگپو۔ ہمارے۔

المحوزاب: گھر کی صدر کی جگہ۔ گھر کی اچھی
جگہ۔ صدر مجلس۔ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔

کچھار۔ و محوزاب المنسجد: امام کے کھڑے
ہونے کی جگہ۔ قبلہ۔ ح محازب: کہا جاتا ہے

"إنہ یکرہ المحازب" وہ صدر مجلس میں
لوگوں سے ممتاز ہو کر بیٹھنے کو کمرہ سمجھتا ہے۔

المحوزب و المنحوزب: شیر۔
الحرث: ایک قسم کی نباتات۔ ح حوزاب:

الجزیب و الجزیب: بڑا سانپ اڑوہا۔
حوزب: الارض۔ پانی دینا یا بل چلا کر پانی دینا۔

حوزب: حوزبنا۔ القوس: سخت چلہ کھینچنا۔
حوزب (ن) حوزبنا الشئ: سخت ملنا۔

حوزب (س) حوزبنا الرجل: بد خلق ہونا۔
الحوزب: سہ۔ جانوروں کے چارہ کھانے کی

آواز۔
الحرث: ایک قسم کی پھلی۔

الحوزئہ: رائی کی چر پر اہٹ جس کا اثر ناک میں
محسوس ہو۔

الحوزئہ: بہت کھانے والا۔
الحوزات: آگ کے بھڑکنے کی آواز۔

الحوزتک: ڈلے جمہ والا۔
حوزب (ن ض) حوزبنا الارض: بل چلانا، کھیتی

کرنا۔ صفت (حارث) ح حوزاب۔ حوزب
المال: کمانی کرنا۔ جمع کرنا۔ الناز: کریدنا۔

الشئ: اچھی طرح مطالعہ کرنا۔ الاقرض: یاد کر کے
بھڑک اٹھنا۔ الحوزب: ٹکڑے ٹکڑے کرنا

(و أحوزب و احوزب) الذابۃ: تھکانا۔ دلا کرنا۔
صفت مفعولی (حوزئہ) ح حوزاب:

احوزب: الارض: کھیتی کرنا۔ المال: کمانی کرنا۔
الحوزب: سہ۔ کھیتی۔

الحارث: نا۔ ح حوزاب۔ الحارث: و
ابو الحارث: شیر کی کنیت۔

الحوزئہ: کمانی۔ ح حوزاب:
الحوزائہ: کھیتی۔ کاشتکاری۔

المحوزب: ح محازب و (المحوزاب) ح
محازب: بل۔ کر۔ یعنی۔

حرج (س) حوزبنا الشئ: ٹلک ہونا۔
الرجل: بھگپو ہونا۔ العین: اندر دھنسنے

جانے کی وجہ سے بیٹائی کم ہونا۔
عَلَيْهِ الشئ: حرام ہونا۔ الیہ: پناہ لینا۔

العبار: ٹلک جگہ میں ٹھکانا۔
حرج (ن) حوزبنا: انیتاہ: غصہ سے دانت

پینا۔
حوزب: ٹلک کرنا۔ حرج عَلَیْہ: کسی سے یہ

کہنا کہ تو غصی میں ہے۔
أحوزب: گناہ میں مبتلا کرنا۔ غلگی میں ڈالنا۔ ٹلک

جگہ کیلئے مجبور کرنا۔ فلاناً الیہ: مضطر کرنا۔
أحوزب عَلَیْہ الامور: حرام کرنا۔

تحوزب: گناہ سے بچنا۔
الحوزب: گناہ۔ بہت درختوں والی ٹلک جگہ۔

مردہ لے جانے کا سخت۔ حرمت۔ کہا جاتا ہے "لا
حوزب عَلَیْک" تمہارا کوئی قصور نہیں، یا

تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔
و حَدِثَ عَنِ النَّحْوِ وَ لا حوزب۔ سمندر کے

متعلق بیان کرنا اور تمہارے اوپر مبالغہ وغیرہ کا
کوئی اعتراض نہیں۔

الحوزب: گناہ۔ گوڑی۔ شکار میں سے کتے کا
حصہ۔ درندوں کے شکار کے لیے پھندا۔ بکریوں کا

ریوڑ۔ ح حوزاب و حوزاب:
الحوزب: ٹلک۔ وہ شخص جو لڑائی سے منہ نہ

پھیرے۔ بہت درختوں والی ٹلک جگہ۔ وہ شخص
جو کسی معاملہ میں پیش قدمی کرنے سے خوف

کھائے۔
الحوزب: درختوں کا جھنڈ۔ بکریوں کا "اؤنٹوں

کا گڈ۔ ح حوزب و حوزبات:
الحوزب: ڈوہلی۔

الحوزب: ٹلک۔
المحوزاب: بین اللیالی: بہت سرد رات۔

المحوزب: ٹلک کرنے والا۔ کہا جاتا ہے
"خلف بالمحوزبات" اس نے غلگی میں مبتلا

کرنے والی تسمیں کھائیں۔
الحوزب: ٹھنڈی ہوا جو تیز چلے۔ ح

حوزب:
حوزب: لہبا ہونا۔ دائیں بائیں دوڑنا۔

الحوزب: سہ۔ لنگڑا پن۔ ()
و الحوزب: گھوڑوں کا گڈ۔ کہا جاتا ہے "جاءوا

<p>الحوزسان۔ رات دن۔ الحوزانسة۔ حفاظت۔ الحوزينة۔ بکریوں کا باڑہ۔ رات میں چوری کی ہوئی بکری۔ چوری۔ حج حوزائیس۔ الا حوزس۔ پرانا۔ جس پر ایک زمانہ گزر گیا ہو۔ الحوزسان۔ بُدی کی ایک قسم۔ الحوزسم۔ گوشہ۔ الحوزبیم۔ زہر موت۔ الحوزابین۔ ایک قسم کی چھلی۔ الحوزابین۔ لہجے اونٹ (اس کا واحد نہیں) قط والے سال۔ حوز (ض) حوزشا و حوزاشا۔ الضب: شکار کرنا۔ البھوز: تیز چلنے کیلئے رشتی سے پیٹھ کو رگڑنا۔ الوجیل: خراش لگانا۔ حوزس (س) حوزشا۔ سخت ہونا۔ صفت (آخرش)۔ الرجل: دھکارنا۔ حوزس۔ بین القوم و بین الکلاب و السباع یا ایک کو دوسرے کے خلاف برا بھلا کرنا۔ حوزس۔ بہ: ورپے ہونا۔ حوزس الضب و بالضب: شکار کرنا۔ الحوزس۔ الشئ: جمع کرنا۔ القوم: اکٹھا ہونا۔ الرجل: دھکارنا۔ اھبالہ: کمانی کرنا۔ الضب: شکار کرنا۔ الحوزس۔ مہ: اثر دھکارنا۔ جمع۔ حج حوزس۔ الحوزس۔ کھورنا۔ وہ شخص جس کو نیند نہ آئے۔ الحوزس و الحوزس۔ کھورنا۔ الحوزس۔ کشتائی۔ حج حوزس۔ کن کجورا۔ الحوزس: ایک دریائی جانور۔ گینڈا ایک قسم کا جینی دار سانپ۔ الحوزس۔ ایک قسم کی نباتات۔ کہا جاتا ہے "أحوز جئت له حوزیشی" میں نے اس کیلئے مناسب کچھ جو میرے قبضے میں تھا نکل دیا۔ الحوزس۔ بین العیات۔ پرانیساہ سانپ۔ الإحوزس۔ کھوری گوہ۔ دینار احوزس: نئے</p>	<p>حوز (ان) حوزا۔ المان حفاظت کرنا اکٹھا کرنا۔ حوز (س) حوزا۔ پر ہیز گار ہونا۔ حوز (ک) حوزا و حوزا۔ المکان: مضبوط ہونا۔ حوز۔ الشئ: حفاظت میں مقابلہ کرنا۔ (۔ و أحوز المکان الرجل: جائے پناہ ہونا أحوز الشئ: جمع کرنا۔ حفاظت کرنا۔ زخمیہ کرنا۔ تحوز و إحوز۔ منہ: بچنا۔ استحوز۔ محفوظ جگہ میں آجانا۔ الحوز۔ مضبوط جگہ۔ کہا جاتا ہے "حوز حوزو حوز" بہت محفوظ مقام۔ حصہ۔ کہا جاتا ہے "أخذ حوزہ" اس نے اپنا حصہ لے لیا۔ ہر وہ چیز جس میں اشیاء کی حفاظت ہو سکے جیسے صندوق وغیرہ۔ ہر وہ چیز جو ضائع اور تلف ہونے سے بچائے۔ فی اصطلاح المعوذین: تمویذ۔ حج أحوزا۔ الحوز۔ مہ۔ بچوں کا ایک قسم کا کھیل جو اُخروت سے کھیلتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو محفوظ کی گئی ہو۔ حج أحوزا۔ الحوز۔ جمع کی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "لا حوزی من یتبع" یعنی اگر اس نے خواہش کے مطابق قیمت دے دی تو میں بچ دوں گا۔ الحوزیة۔ بین الابل: اونٹ جن کو خوبی کی وجہ سے فروخت نہ کیا جائے۔ حج حوزا۔ حوزقہ۔ اللہ: لعنت کرنا۔ الاناء: ہیرا۔ حوزس (ان) حوزشا۔ حفاظت کرنا۔ صفت (حازس) حج حوزاس و حوزس و حوزس و أحوزس۔ حازس السماء و حازس السماک : دو ستاروں کے نام۔ حوزس (ض) حوزشا و إحوزس۔ الشئ: رات میں چوری کرنا۔ حوزس (س) حوزشا۔ نبات دراز تک زندہ رہتا۔ أحوزس۔ بالمکان: حفاظت کیلئے قیام کرنا۔ حوزس و إحوزس۔ منہ: محفوظ رہنا۔ حج کر رہنا۔ الحوزس۔ مہ۔ زمانہ۔ کہا جاتا ہے "مضی علیہ حوزس" اس پر ایک زمانہ گزر گیا۔ حج أحوزس۔ الحوزس۔ حفاظت کرنے والے۔ و حوزس الملک: شاہی محافظ۔ فوج (واحد حوزیہ)</p>	<p>حوزاجلہ" وہ اپنے گھوڑوں پر آئے۔ الحوزجل و الحوزاجل۔ لمبا۔ حوزجم۔ الابل: اونٹوں کو ایک دوسرے پر گرتے ہوئے واپس کرنا۔ إحوزجم۔ القوم او الابل: اکٹھا ہونا۔ عن الامر: ارادہ کے بعد ہٹ جانا۔ الحوزج۔ اندام نمائی۔ حوز (س) حوزا و حوزا۔ علیہ: غضبناک ہونا۔ صفت (حازد و حوزد و حوزدان)۔ الوتر: کمان کی تاروں میں سے بعض کا بعض سے لمبا ہونا۔ صفت (حوزد) حوزہ (ض) حوزا۔ منع کرنا۔ ارادہ کرنا۔ الحوزب: سوراخ کرنا۔ (حوزوڈا) قوم سے علیحدہ و اکیلا ہونا۔ صفت (حوزد و حوزد) حج حوزاد و حوزید حج حوزاد۔ حوز۔ جمہور میں سے پناہ لینا۔ الشئ: ایک بل کا تھامنا۔ ہ: روکنا۔ حوزد الخیل: بٹنے سے گول ہو جانا۔ الشئ: ٹیڑھا کرنا۔ أحوزد۔ الگ کرنا۔ اکیلا کرنا۔ أحوزد فی المشی: تیز چلنا۔ حوزد۔ الادبیم: بالوں سے پاک صاف ہونا۔ حازدب۔ الناقہ: کم دودھ والی ہونا۔ صفت (حوزوڈ حوزاد)۔ السنۃ: کم بارش والا ہونا۔ حازد الزجل: دیر رہنے کے بعد بند کر دینا۔ إحوزد۔ اکیلا ہونا۔ الحوزم: ٹوٹنا۔ الحوزد۔ مہ۔ اونٹ کی اگلی ٹانگ کے پٹھے کا ڈھیلا پن۔ الحوزوڈ۔ کم دودھ والی اونٹنی۔ الحوزید۔ دور۔ خشک کی ہوئی چھلی۔ بہت میں سے تموزی چیز۔ الاحوزد۔ اگلی ٹانگ کے پٹھے کے ڈھیلا پن والا ہونا۔ بخیل کجوس۔ زرہ کے بوجھ سے اچھی طرح نہ چل سکے والا۔ حج حوزد۔ الحوزاد۔ بے بارش کا سال۔ جمع۔ حوزاد۔ الحوزدبہ۔ سکی بے عقلی۔ الحوزوڈن۔ زرگوہ۔ یا گرگٹ کے مشابہ ایک جانور۔</p>
--	---	--

ہونے کی وجہ سے کمزور اور نارنج خورض۔
 الحَوْضُف۔ مچھلی کا سفنا۔ چھوٹے پرندے۔
 مڈی کہ ابھی پرندے لگے ہوں۔ زورہ کی کڑیاں۔ کمزور
 بوڑھے۔ کہا جاتا ہے "ایسی فتنہ غیر حَوْضُف
 و جبال" وہاں پر سوائے کمزور بوڑھے لوگوں کے کوئی
 نہیں۔ پیادوں کی جماعت۔ سمندر کے کنارے کے چترج
 حَوْضُف۔ سخت زمین۔
 حَوْضُف (ن) حَوْضًا۔ الجلد: مچھلیا۔
 القصار العوب: دھومنے یا کونے میں پھاڑنا۔
 حَوْض (ض) حَوْضًا (س) حَوْضًا
 اختِصَّص۔ علی الشَّيْءِ: لالچ کرنا صفت
 (حویض) حَوْضًا حَوْضًا و حَوْضًا و حَوْضًا
 مؤنث حَوْضًا حَوْضًا و حَوْضًا
 حَوْض۔ العرضی: حج کے بالکل صاف کیا جانا۔
 حَوْضًا۔ علی الشَّيْءِ: لالچ دلانا۔
 حَوْضًا۔ بکلف لالچ کرنا۔ وقت کا انتظار کرنا
 اور اسی سے ہے ہو یقیناً حَوْضًا غَدَاهُمْ و
 عَشَانَهُمْ وہ ان لوگوں کے صبح شام کے کھانے
 کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔
 الجَوْضُف۔ لالچ۔
 الحَوْضَةُ والحَوْضَةُ والحَوْضَةُ زخم جو
 کچھ کھال کو پھاڑ دے۔ الحَوْضَةُ و
 الحَوْضَةُ: سخت بارش جو زمین کو صاف کر
 دے۔
 حَوْضُف (ن) حَوْضًا و حَوْضًا (س)
 حَوْضًا و حَوْضًا (ک) حَوْضًا۔ مرض نامد
 میں مبتلا ہو کر رہنا ہونا۔ صفت (حَوْضُف و حَوْضُف
 و حَوْضُف و حَوْضُف) کہا جاتا ہے "ناقعة
 حَوْضُف" وہی اونٹنی۔
 حَوْضُف (ض) حَوْضًا۔ نفسہ: خراب کرنا
 بگاڑنا۔
 حَوْضُف۔ علی الامر: برا گیند کرنا۔ فلائنا:
 کسی کے بدن یا عقل کی خرابی کو زور کرنا۔
 الشَّيْءِ: خراب کرنا بگاڑنا۔
 حَوْضُفًا گرانہ۔ الحزن او العرض:
 بدن کو گھلانا۔ علی الشَّيْءِ: برا گیند
 کرنا۔ الرجل: بالکف اولاد کا لاپ ہونا۔

حَاوَضَ۔ علی العمل: مداومت کرنا۔ فلائنا:
 تیری کچھڑے سے ایک دوسرے کو مارنا۔
 حَاوَضُوا۔ علی العمل: ایک دوسرے کو
 برا گیند کرنا۔
 الحَوْضُف۔ بد۔ بدن یا مذہب یا عقل کی خرابی
 حَوْضُفُ الثَّوْبِ: کپڑے کا کنارہ۔
 الحَوْضُف: قریب بسلامت۔ بے فیض آدمی۔ وہ
 شخص جس کو غم یا عشق گھلا دے۔ گرا ہوا جو اٹھنے
 کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بڑی گفتگو۔ حَوْضُف و
 حَوْضَان و حَوْضَةٌ۔
 الحَوْضُف و الحَوْضُف۔ ایشان جس سے کھانے
 کے بعد ہاتھ دھوئے تھے۔
 الحَوْضَةُ۔ جوئے بازوں کا امین۔ وہ شخص جو
 گوشت نہ خریدے، نہ کھائے مگر اس صورت
 میں کہ مفت مل جائے۔
 الحَوْضَةُ۔ گھنیا قسم کا آدمی جس کو کوئی شہ نہ
 لگائے۔ حَوْضُف۔
 الحَوْضُف۔ ایشان کا برتن۔
 الحَوْضُف۔ حج یا چمن بنانے کیلئے پتھر کو آگ میں
 جلائے والا۔
 الحَوْضَةُ۔ ایشان کا بازار۔
 الحَوْضُف۔ وہ شخص جس کو غم گھلا دے)
 _____ والحورض) گرا ہوا شخص جو اٹھنے کی
 طاقت نہ رکھتا ہو۔
 حَوْضُف (ض) حَوْضًا۔ الشَّيْءِ عن وجه: پھیرنا
 جھکانا۔ _____ عن الشَّيْءِ: ناکل ہونا۔
 لعیالہ: داہرا دھر سے کمالی کرنا۔
 حَوْضُف۔ فی مالہ حَوْضُفًا۔ کچھ ضائع ہو جانا۔
 حَوْضُف۔ القول: قول کو اس کے موقع سے پھیر
 دینا۔ _____ القلم: ٹیڑھا قلم لگانا۔
 _____ الشَّيْءِ: کنارہ بنانا۔ جھکانا۔
 حَاوَضَ۔ معاملہ کرنا۔ اور اسی سے ہے "فَقَدْ
 عَلِمُوا لِمَى الْغَزْوِ كَيْفَ حَاوَضُوا" انہوں نے
 یقیناً جان لیا کہ ہم جنگ میں ان کے ساتھ کیسا
 معاملہ کرتے ہیں۔ الرجل: شریا خیر کا بدلہ
 دینا۔ _____ الجرح: سلائی سے اندازہ کرنا۔
 حَوْضُف۔ فقیری کے بعد مستحق ہونا۔ اہل و عیال
 کے لیے مشقت برداشت کرنا۔

الناقعة: لاغر کرنا۔ الرجل: خیر و شر کا بدلہ
 دینا۔
 حَوْضُفُ عِنْدَ وَحَوْضُفُ و حَوْضُفُ۔ ایک
 جانب کو جھکانا۔ حَوْضُفُ لِقِيَابِهِ: ہریشہ سے کمالی
 کرنا۔
 حَوْضُفُ۔ پیشہ اختیار کرنا۔ تلاش کرنا۔ جیلہ کرنا
 _____ لاہلہ: کمالی کرنا۔
 الحَوْضُف۔ حَوْضُف: کنارہ، دھار۔ جانب
 "حَوْضُفُ الْجَبَلِ" پہاڑ کا تیز سرا۔ کہا جاتا ہے
 "فَلَانٌ عَلِيٌّ حَوْضُفٌ مِنْ أَمْرِهِ" فلاں شخص
 معاملہ کے ایسے موقع پر ہے کہ اگر پسند خاطر نہ ہو
 تو ہٹ جائے۔
 الحَوْضُف: پانی بننے کی جگہ۔ حَوْضُفُ السَّيْفِيَّةِ
 او النہر: کشتی یا دریا کا کنارہ۔ الحَوْضُف حَوْضُفُ
 حَوْضُفُ و حَوْضُف: حروف جمعی میں سے ایک
 اور اس کا نام "حروف المعنی" ہے۔
 فی النحو: وہ کلمہ جو بغیر دوسرے سے ملے
 ہوئے معنی نہ دے اور اس کا نام حروف
 المعنی ہے۔ کلمہ جیسے یہ حرف قاموس میں
 نہیں یعنی یہ کلمہ نہیں۔
 الحَوْضُف۔ رائی واحد (حَوْضُفہ)
 الحَوْضُف: بحروی بد بختی۔
 الحَوْضُف۔ پیشہ۔
 حَوْضُفُف۔ الرجل: ہمیشہ حَوْضُفُف
 الحَوْضُف۔ بحروی۔ کم لیبی بد بختی۔
 الحَوْضُف۔ چہرا ہٹ۔
 الحَوْضُف۔ چہرا ہٹ والی چیز۔ کہا جاتا ہے
 "هَذَا بَصِلٌ حَوْضُفُف" یہ تیز باز ہے۔
 الحَوْضُف۔ پیشہ ور۔
 الحَوْضُف و الحَوْضُف۔ زخم کی گہرائی
 معلوم کرنے کی سلائی۔
 الحَوْضُف۔ وہ شخص جس کا لال ضائع ہو گیا ہو۔
 الحَوْضُف۔ محروم۔ کم نصیب۔
 الحَوْضُف۔ برت سے اصیل اونٹ۔
 الحَوْضُف۔ اصیل لاغرا اونٹنی۔
 حَوْضُفُف۔ اکٹھا ہونا۔ کہا جاتا ہے۔
 "حَوْضُفُفُوا لِلزَّوْجِ" جانے کیلئے اکٹھا ہونے
 "حَوَاضَاتُ حَوْضُفَاتُ" مہرہ اشعار۔

لفحرم" میں دونوں معنی جمع ہو گئے ہیں۔ یعنی
ذروعت ورنہ خیر سے محروم رہو گے۔

استحرم۔ الشئ: حرام سمجھنا۔

الجزم۔ ہ۔ حرام ایسا واجب جس کا ترک کرنا
جائز نہ ہو۔ ج حزم۔ احرام کا زمانہ۔

الجزم۔ ہ۔ حج کا حرام۔

الحزم۔ ہ۔ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے
اور جس کی طرف سے مداخلت کی جائے۔

مقدس۔ ج احزام۔ الحزم الاقصى: بیت
المقدس

الحرمات۔ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ۔

الجزمات۔ محرومی۔

الحزمۃ مقولہ الحزمۃ مقولہ الحزمۃ ذمہ نسبت ہر
وہ چیز جس کی ادائیگی ضروری ہو اور جس کے

اندر کو تاسی حرام ہو۔ حصہ۔ قابل حفاظت چیز جس
کی پردہ وری حرام ہو۔ حزمۃ الرجل: بیوی۔ ج۔

حزمۃ حرمات و حرمات حزمۃ۔

الحزمۃ۔ حفاظت۔

الحرمیم۔ ہ۔ ہر وہ چیز جو حرام ہونے کی وجہ
سے چھوئی نہ جائے۔ محرم کا پڑا۔ حرمیم

الرجل: جس کی طرف سے مداخلت اور اس کی
حفاظت کی جائے اور اسی وجہ سے بیوی کو حرمیم

کہتے ہیں۔ قمر شاہی کے ارد گرد وسیع جگہ۔ ہر وہ
جگہ جس کی حفاظت واجب ہو۔ ج حزمۃ و استحزم

و احاریم۔

الحزم۔ ایک شخص کی بیویاں۔ الاظہر
الحزمۃ نعمة: ذوالنعمہ و ذوالحجہ و محرم و رجب

کہ ان بیٹوں میں عرب قبل و قبال کو حرام سمجھتے
تھے۔

الحرمۃ۔ ہ۔ ہر مرغوب چیز سے جو فوت ہو
جائے۔

الحزام۔ ہ۔ ضد حلال۔ ج حزم۔ کہا جاتا ہے
"حرام اللہ لا الفعل" "تم کیلئے جیسے "بھینٹ

اللہ لا الفعل" احرام باندھنے والا۔ کہا جاتا ہے
"رجل حرام و قوم حرام" احرام باندھنے والا

مرد احرام باندھنے والی قوم۔ دونوں صورتوں میں
واحد ہی مستعمل ہے اس وجہ سے کہ یہ مصدر

ہے۔ الشہرۃ الحزام بلہ محرم۔ البلد الحرام:

مکہ مکرمہ۔ المسجد الحرام: مسجد کعبہ۔

الحواصیق۔ حرام کام کرنے والا۔

مخزم۔ قمری سال کا پہلا مہینہ۔ المحزم: جس
کے لیے ذمہ ہو۔ جلد محزم: بے کمائی ہوئی

کمال موقوفہ محزم: کوڑا جو نرم نہ کیا گیا ہو۔
آخر ای محزم: آجدرہائی۔

المخزم۔ حرام۔ ج مخاریم۔ معاریم اللیل:
رات کے فطرات۔

المخرم۔ احرام باندھنے والا۔ صلح کرنے والا۔ ہر
وہ شخص جو تمہاری حفاظت میں ہو۔ کہا جاتا ہے

"انہ لمخرم عنک" یعنی اس کی تکلیف
تمہارے اوپر حرام ہے۔

المخزم۔ خیر سے روکا ہوا۔ وہ شخص جس کے
مال میں زیادتی نہ ہو۔ وہ بد نصیب جو کمال نہ کر سکتا

ہو۔

المخزومۃ و المخزومۃ۔ ہر وہ چیز جس کی پردہ
وری جائز نہ ہو۔ ج مخاریم۔

المخزومۃ۔ چھوٹا ٹیلا جس پر کھنہ نہ آگے۔

المخزم۔ گائے۔ واحد (مخزومۃ)

المخزم۔ بہت مال۔

مخزمۃ۔ ہی الامر: احرار کرنا۔

الجزمیدو الجزمۃ۔ رنگ و بو بدلا ہوا اور بقول
بعض سیاہ بچھڑ

مخزمۃ۔ لعنت کرنا۔

مخزمۃ۔ ذکی ہونا۔

الجزمۃ۔ جگنا۔ کہا جاتا ہے "بلد جزمۃ و
أرض جزمۃ" یعنی سخت۔ "سنون

جزمۃ" سخت قحط کے سال۔ اس کا واحد
جزمۃ ہے۔

الحزمۃ۔ کالا دانہ۔

حزون و حزون (ان وک) حوزون و حوزان
و جزان۔ البغل: اڑ جانا۔ صفت مذکر و مؤنث

(حزون) ج حزون۔ و حزون فی البیع: ٹھیک
قیمت پر بیچنا۔ حزون (ک) حزونۃ۔ بالمکان: جگہ

سے نہ ہٹنا۔ العسل فی الخلیبۃ: شہد کا
چھت میں چپکے کی وجہ سے نکالنے میں دشواری

ہونا۔ و حزون القطن: ڈھنڈا۔

المخزون۔ ڈھنڈے کی کمان۔

المخزون: شہد۔ ج مخاریم۔

المخاریم۔ بنولے۔

الحز۔ گھر کا گھن۔ کہا جاتا ہے "تزلزلت
بہزۃ" میں اس کے گھن میں آڑا۔ آواز۔ گمراہ۔

ہرن کے چھینے کی جگہ۔ ج اخزاء۔ الحز: لائق۔
کہا جاتا ہے "بالحز ان یكون ذاک"

الحزوة۔ رائی وغیرہ کی تیزی۔

الحزوة۔ گلے یا سینے میں یا سر میں غصہ یا درد
کی وجہ سے جلن۔ بدو کے ساتھ چہ پراہٹ۔

حزوی (ض) حزون الشئ: گھٹنا۔ کم ہونا۔

أحزوی الشئ: گھٹانا۔ کم کرنا۔

تحزوی۔ قابل استعمال کو طلب کرنا۔ دو چیزوں
میں سے اولیٰ کو طلب کرنا۔ الأثر: قصد

کرنا اور فضیلت دینا۔ بالمکان: ٹھہرنا۔

المخزوی و المخزوة۔ لائق سزاوار۔ کہا
جاتا ہے "هذا الامر محزوی او محزوة"

لذلك او بذالک" یعنی یہ کام اس کے لائق
ہے۔

الحزوی۔ ج حزویون و آخریاء مؤنث حزویۃ
ج حزویات و حزویا (الحزوی) ج اخزاء

(الحزوی) لائق سزاوار۔ مناسب۔ کہا جاتا ہے۔
"انہ لخری او حزی و حزی بکذا بان یفعل

کذا" یعنی وہ فلاں چیز کے لائق ہے اور فلاں کام
کرنے کے لائق ہے۔ (آخر کلمہ کے تشبیہ و جمع

نہیں آتے)

الحزایۃ۔ بہت زہریلا سانپ جو پرانے ہونے
کی وجہ سے چھوٹا ہو گیا ہو۔

الأحزوی۔ زیادہ لائق زیادہ مناسب زیادہ بہتر۔
حزۃ (ن) حزوا و احتزۃ۔ کانا۔ حز العود:

شکاف ڈالنا۔

تحزۃ۔ شکاف پڑنا۔

حزوا حزی۔ علیٰ کوم فلان: بڑھ جانا۔

حزۃ۔ آسانہ۔ کناروں کو تیز کرنا۔

حزۃ محازۃ و جزاؤا۔ پوری کوشش کرنا۔
انہی طرح سے تلاش و جستجو کرنا۔

الحزۃ۔ ہ۔ وقت۔ سخت گفتگو والا۔ کزوی وغیرہ
میں شکاف۔ واحد (حزۃ)

الحزۃ۔ درود۔ وقت۔ کہا جاتا ہے "انہی حزۃ"

<p>تھوڑے۔ "وہذا الموحزئیت" یہ دھواں اور ہے۔ الحزب۔ لوگوں کی جماعت۔ ہتھیار۔ پارٹی۔ حصہ۔ ورد۔ وظیفہ۔ ج. الحزاب۔ ہر وہ قوم جس کے خیالات و افکار ایک ہوں اگرچہ آپس میں ملاقات نہ ہو۔ الحزائیں والحزایۃ۔ من الرجال: گئے بدن والا۔ پست قدم۔ الحزینون والحزینون۔ کھوسٹ بڑھیا۔ حَزْر (ن ض) حَزْرًا وَمَحْزَرَةً۔ الشَّقُّ: اندازہ کرنا، تخمینہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "حزرو قدمہ یوم کذا" اس نے اپنے آنے کا فلاں دن اندازہ کیا حَزْرًا (ک) حَزْرًا وَ حَزْرًا (النیبذ) او اللہن: کٹھن۔ صفت (حازر) الحزرة۔ ج. حَزْرَاتٍ وَ (الحزیرة) جن کل شی: عمدہ حصہ۔ الحازر۔ جو کائنات جس میں بوسیدہ ہو گئی ہو۔ الحازرة: حازر کا مؤنث: مشہود قوی آنکھی۔ الحزور والحزور۔ طاقتور لڑکا۔ ج حزاوڑة: کمزور مرد۔ طاقتور مرد۔ الحزوزة۔ معہ۔ ہتھیار۔ پھیلی (عوام کی لغت ہے۔ فصیح لفظ "الاحجیة" ہے۔ المحزور۔ ٹھنڈا۔ الحزوزة۔ چھوٹا ٹیلہ۔ ج. حزاوڑو حزاوڑة الحزوزة۔ چھوٹا ٹیلہ۔ ج. حزاوڑو حزوزان۔ ماہ جون۔ شمسی سال کا چھٹا مہینہ۔ حزوف۔ القوم للقوم: جنگ کیلئے آمادہ ہوتا۔ حزفہ الإفاء: بھرتا۔ المناغ: باندھتا۔ الحزوفة۔ چھری ہموار زمین۔ حزقی (ض) حزقا۔ القو اور الرباط: خوب کھینچ کر باندھنا۔ الشئی: دیا کر چھڑنا۔ الحماز: گوز کرنا۔ بالجبل: رسی سے باندھنا۔ الحزقة۔ منع کرنا۔ روکنا۔ تحزق۔ سکڑنا۔ الحزق والحزقة والحازقة والحزاقلة والحزیقۃ۔ آری وغیرہ کی جماعت۔ حزیقہ کی جمع حزاقیق و حزقین و حزقین۔ ہر چیز کا</p>	<p>آکھنٹی قضیت حاجتک میں نے اس وقت تیری حاجت پوری کی جب تم میرے پاس آئے۔ دشوار حالت الحزاز والحزازة۔ سرکی بھوسی۔ عوام حزاز کو دار کے معنی میں استعمال کرتے ہیں مگر فصیح لفظ اس کیلئے قویا ہے۔ الحزازة: غمغمہ وغیرہ کی وجہ سے دل کا درد گفتگو میں بے راہ روی۔ ج. حزازات۔ الحزاز والحزاز۔ ہر وہ چیز جو دل یا سینہ میں باعث تکلیف ہو۔ حواز۔ القلب: دل کو آلم پہنچانے والے امور۔ واحد (حازة) الحزیز۔ سخت عمل کرنے والا ج. حزوز و حزان و حزان و اجزۃ۔ الحزازی۔ سخت عمل کرنے والا۔ تیز ہانکنے والا۔ المنحز۔ کانٹے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ "قطع فاصاب المنحز" اس نے قطع کیا اور درست قطع کیا۔ المنحز۔ کانٹے کا آلہ۔ ج. محاز۔ سخت گفتگو والا۔ الحز۔ سختی۔ الحزۃ۔ بھد۔ حزا (ف) حزا۔ الابل: جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا السراب الشخص: نمایاں کرنا المرأة: جماع کرنا۔ الحزوزا۔ الطائر۔ پروں کو سمیٹ کر اڑوں سے علیحدہ ہونا۔ الابل: اکٹھا ہونا۔ حزوتہ (ن) حزوتہ۔ الویل الغم: بچھڑنا۔ لاحق ہوتا۔ سخت ہوتا۔ حزاب القرآن: ایک حصہ مقرر کر کے پڑھنا۔ حزاب۔ القوم: پارٹی پارٹی کر کے جمع کرنا۔ حزابہ۔ کسی کی پارٹی میں داخل ہونا۔ مدد کرنا۔ قوت پہنچانا۔ حزاب۔ القوم: اکٹھا ہونا۔ پارٹی پارٹی ہونا۔ الحزاب۔ ج. حزاب و (الحزب) ج حزاب و حزاب: امر شدید۔ تم کہتے ہو "نزلت یہ حزاب الخطلوب" اس پر سخت حادثے واقع</p>
---	---

جاتا ہے "شَدَّ دُثْ لِهَذَا الْأَمْرِ حَزْنِي" میں نے اس معاملہ کیلئے کرا کو سبب یعنی پوری طرح سے آمادگی ظاہر کی۔ سینہ کا وسط۔ حَزْنُومُ وَأَحْزَمَةُ الْأَحْزَمِ۔ چڑھے سینہ والا۔ بڑے ہیبت اور موٹی کروالا۔

الْأَحْزَامُ پاریاں۔

الْحَزْنُومُ۔ سینہ کا وسط۔ سخت و بلند زمین۔ حَزْنٌ حَيَاةٍ وَ حَيَاةٍ نِيمٌ۔ "شَدَّ الْحَيَاةِ" کنایہ ہے مہر کرنے سے۔

الْمَحْزُومُ مِنَ الدَّابَّةِ: ننگ یا رے کی جگہ۔ حَزْنَةٌ (ن) حَزْنًا۔ ٹھمکین کرنا۔

حَزْنٌ (س) حَزْنًا۔ لُءٌ وعلیہ: ٹھمکین ہونا صفت (حزین) حَزْنًا و حَزَانٌ و حَزَالٌ و حَزْنٌ و حَزُونٌ و مَحْزُونٌ و مَحْزُونٌ و مَحْزَانٌ و حَزْنَانٌ

حَزْنٌ (ک) حَزُونَةٌ۔ المکان: سخت ہونا۔

أَحْزَنَ۔ سخت زمین میں چلانا۔ (وَحْزَنٌ) الرجل: ٹھمکین بناؤ حَزْنٌ الْقَارِيءُ: باریک آواز سے بڑھنا۔

فَحْزَنٌ وَ تَحْزَانٌ وَ إِحْزَانٌ۔ غم گین ہونا۔ تَحْزَنٌ عَلَیْهِ وَ لَا مَرَهُ: دردمند ہونا۔

الْحُزْنُ وَ الْحُزْنُ۔ غم۔ حَزْنٌ أَوْ حَزَانٌ۔

الْحُزْنُ۔ سخت و بلند زمین۔ حَزْنٌ وَ حَزُونٌ۔ الْحُزْنَةُ مِنَ الْأَرْضِ: سخت زمین۔

الْحُزْنَةُ۔ سخت پہاڑ۔ حَزْنٌ حَزْنٌ۔ الْحُزْنُ: سختیاں۔

الْحُزْنَةُ: اہل و عیال جن کی وجہ سے آدمی لگھڑ مند رہتا ہے۔

الْحُزُونَةُ: زمین کی سختی۔

الْحُزْنُ بَل: بیوقوف عورت۔ گھٹے بدن کی پست قد عورت۔ کھوس بڑھیا۔ کروے مزہ کی ایک قسم کی ہنات۔

حَزَا (ن) حَزْوًا وَ حَزْوًی (ض) حَزْوَانًا وَ تَحْزَوُی الشَّیْءَ: اندازہ کرنا۔ تمیز کرنا۔

الطَّیْرُ: ٹھونکوں سے کھنکھانے کے لیے اڑانا۔ حَزَا (ن) وَ حَزْوًی۔ السَّرَابُ الشَّیْءُ: نمایاں کر دینا۔

أَحْزَى إِحْزَاءَ الشَّیْءِ: بلند و نمایاں ہونا

بِالشَّیْءِ: جاننا۔

الْحَازِی۔ فاء۔ وہ شخص جو ہتھیل وغیرہ دیکھ کر پیشین گوئی کرے اور اسی سے ہے "عَلَى الْحَازِی حَبِطَتْ" یعنی میں دانہ اور واقف کار کے پاس پہنچا۔

الْحَزْوُی وَالْحَزَاءُ۔ ایک قسم کی ہنات واحد حَزَاةٌ وَ حَزَاةٌ۔

الْحَزَاءُ: نجومی دستارہ شناس۔

حَسَهُ (ن) حَسًا۔ قتل کرنا۔ بڑے آکھیزنا۔

حس الدابة: کھری کرنا البور ذالزورع: جلانا۔

اللحم: چنگاری پر ڈالنا النار: پختہ ہونے کے لیے کباب وغیرہ پر آگ ڈالنا۔

حَسٌ (ض) حَسًا وَ أَحْسَ الشَّیْءَ بِالشَّیْءِ: معلوم کرنا۔ کہا جاتا ہے "حَسٌ وَ أَحْسَ مِنْهُ خَبِرَ" اس نے اس سے خبر معلوم کی۔

حَسٌ (س ض) حَسًا وَ حَسًا۔ بالخبر: یقین کرنا لفلان: نرم دل ہونا۔

حَسَهُ: معلوم کرنا۔

فَحَسَسَ: سنا، دیکھا الخبر: معلوم کرنے کی کوشش کرنا الشیء: حواس سے پہچانا۔

فَحَسَسَ مِنْهُ: حقیقت حال معلوم کرنا۔

إِنْ حَسَسْتَ: استغاثہ: اکھڑانا۔ ٹوٹ جانا۔

إِحْتَسَسَ الشَّیْءَ: چھوٹا۔ بڑے آکھیزنا۔

الْحَسَّ: حرکت۔ آہستہ آواز۔ کہا جاتا ہے

"مَا أَسْمِعْتُ لَهُ حَسًّا" میں نے اس کی آہستہ آواز نہیں سنی۔ آہستہ۔ بچہ کی پیدائش کے بعد کا

درد۔ حَسَّ الحُمَّى: بخار کے شروع ہونے کا احساس۔

الْحَسَّ: جیلہ۔ شور۔

الْحَسَّةُ وَالْحَسَّةُ: حالت۔ کہا جاتا ہے "ہو لی حَسَّةٌ سَوَاءٌ" وہ بڑی حالت میں ہے۔

الْحَاسَةُ: الجحاش کا مؤنث۔ معلوم کرنے کی قوت۔ حَزَاةٌ الْحَوَاشِ الحَمْسُ: معلوم کرنے کی پانچ قوتیں۔ (سنتا) دیکھنا، سوکھنا، چکھنا

چھونا) "حَوَاشِ الْأَرْضِ حَمْسٌ" زمین کے لیے پانچ آفتیں۔ سروی اُدلے، ہوا، بڑی، موٹی۔ کہا جاتا ہے "مَرَّتْ بِالْقَوْمِ حَوَاشٌ" لوگوں پر سخت سال گزرے۔

الْحَمْسُ: آہستہ آواز۔ حرکت۔ محمول۔ حَسَّاسٌ الحُمَّى: بخار کے شروع ہونے کا احساس۔

الْحَبِیْبُ۔ وہ چیز جس کا ادراک قوت حاسہ سے ہو اور اس کا ضد عقلی ہے۔

الْحَسَّاسُ۔ ایک قسم کی چھوٹی چھلی جو تنگ کی جاتی ہے۔ پتھر کے چھوٹے ٹکڑے۔ واحد (حَسَّاسَةٌ) بد بختی۔ بد بختی۔

الْحَسَّوسُ۔ سخت قوت کامل۔

حَسَّاسَاتٌ۔ الحیا: کنایہ ہے شرمندگی کی چیزوں کی وجہ سے القباض کا احساس سے۔

الْمَحْشُوسُ۔ حس ظاہری سے معلوم کیا ہوا۔ بد بخت۔ اَرْضٌ مَحْشُوسَةٌ۔ بڑی یا اولے سے تباہ شدہ زمین۔

الْمَحْشَّةُ۔ کھریا۔

الْحَاشُوسُ جاسوس۔

حَسْبَةُ (ن) حَسْبًا وَ حَسْبَانًا وَ حَسْبَانًا وَ حَسْبَانًا وَ حَسْبَانًا۔ شاکر کرنا۔

حَسْبَةُ (س ح) حَسْبًا وَ مَحْشَبَةٌ وَ مَحْشَبَةٌ لِمَانٍ کرنا۔

حَسْبُ (ک) حَسْبًا وَ حَسَابَةً۔ شریف الاصل ہونا۔ صفت (حَسِيبٌ) ح حَسْبَانًا۔

حَسْبٌ۔ ٹھیکہ دینا۔ العیت: کفنا کر

دفن کرنا یا پتھروں میں دفن کرنا۔ ()

وَ أَحْسَبُهُ کسی کو اتنا کھانا دینا کہ وہ بول اٹھے کہ بس۔ کہا جاتا ہے "اعطی فَاَحْسَبُ" یعنی اس نے دیا اور بست دیا۔

حَاسَبُهُ مَحَاسَبَةً وَ حَسَابًا۔ حسابت کی جانچ کرنا۔

فَحَسَبَ۔ قناعت کرنا۔ ٹھیکہ لگانا۔

الخَبِیرُ: دریافت کرنا۔ پہچانا۔ تصد کرنا۔

فَحَاسَبًا: ایک دوسرے کے حساب کی جانچ کرنا۔

إِحْتَسَبَ الامر: بھگنا کرنا۔ شاکر کرنا۔

ما عند فلان: آزمائش کرنا۔ احتساب علیہ الامر: امر مکر سے منع کرنا۔ بہ: قناعت کرنا۔ عنہ: رک جانا یا زہد ہونا۔ احتساب

وَلَدًا لَّهُ: بڑی عمر کے بچہ کو کھونڈنا اور اگر چھوٹا

کرنا۔ افسوس کرنے پر برا لگینے کرنا۔ تکلیف دینا۔
خاترت کرنا۔

أَحْسَرُ - الدابة: چلا کر تھکانا۔

تَحْسَرُ - عليه: افسوس کرنا۔ الشَّعْرُ

او الریش: گرنا۔ جھڑنا۔ تَحْسَرُ الطائر: پروں

کا گرنا۔ تَحْسَرَتِ المرأةُ: برہنہ زوہو کر بیٹھنا۔

إِنْحَسَرَ الشَّيْءُ: کھلنا۔ الطیورُ: پڑانے پڑے

گر کر کے لگانا۔

اسْتَحْسَرَ: جھٹلانا۔

الْحَايِبُ: فنا۔ بغیر عمد یا بغیر زہ یا بغیر خود والا۔

عورت جس نے اپنے چہرہ سے ادرغنی کو ہٹا دیا

ہو۔

الْحَيِيسُ: تھکانے والا۔ افسوس کرنے والا۔

الْحَيِيسُ: تھکا ہوا۔ کزور۔ افسوس کرنے والا۔

تھکانے والا۔ حَسْرَى:

الْحَسْرَانُ: فوت شدہ چیز پر زیادہ افسوس و

حسرت کرنے والا۔

التَّحَايِبُ: مصیبتیں۔ بلائیں۔ واحد

(تَحْسِيرُ)

الْمَحْسِرُ وَالْمَحْسَرُ: چہرہ۔ کہا جاتا ہے

"فَلَانٌ مَلِيحٌ الْمَنْظَرُ وَكَرِيمٌ الْمَحْسَرُ"

فلان دیکھنے میں خوبصورت اور باطن کے لحاظ

سے کریم ہے۔ طبیعت: ح محاسب۔ کہا جاتا ہے

"أَرْضٌ عَارِيَةٌ الْمَحَابِرُ" بغیر نباتات والی

زمین۔

الْمَحْسُورَةُ: جھاڑو۔

الْمَحْسُورُ: البصر: جھل ہوئی نگاہ والا۔

حَسَفْتُ (ض) حَسَفًا وَحَسِنَفًا الْحَيَّةُ:

پھکارنا: حَسَفْتُ (ض) حَسَفًا السَّحَابُ: چلنا

_____ الغنم: ہانکنا التمر: صاف کرنا القرحة:

چھیلنا۔

(حَسَفًا وَحَسِنًا) الزَّرْعُ: کاٹنا۔

حَسَفْتُ (س) حَسَفًا: لہ: کینہ رکھنا۔

غضبناک ہونا۔

أَحْسَفُ: التمر: عمدہ کھجوروں میں رومی

کھجوریں ملا دینا۔

حَسَفْتُ: التمر: عمدہ کھجوروں میں رومی

کھجوریں ملا دینا۔

وَالْمَحْسَبَةُ: چھوٹا کتے۔

مَحْسَبٌ: التلذذ: شرمیں حاکم کی طرف سے

اوزان وغیرہ کی دیکھ بھال کے لیے جو مقرر ہو۔

حَسْبَلُ: حسبی اللہ کرنا۔

حَسْحَسْ: لہ: درود نہ ہونا _____ اللحم:

گوشت کو انگاروں پر ڈال کر لٹائینا۔

تَحْسَحَسْ: للقيام: حرکت کرنا _____

اوباز الابل: متفرق وپراگندہ ہونا۔ گر جانا۔

حَسَدْتُ (ان ض) حَسَدًا وَحَسَادَةً وَ

حَسَدْتُ: فلانا نعمته وعلی نعمته: زوال

نعمت کی تمنا کرنا یا دوسرے سے نعمت کے زوال

اور اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا۔

صفت (حایب) ح حَسَادٍ وَحَسَدَةٍ وَحَسَدٌ:

أَحْسَدٌ: حاسد پانا۔

تَحَايَسًا: ایک دوسرے کے زوال نعمت کی

تمنا کرنا۔

الْحَسُودُ: وہ شخص جو طبعاً حاسد ہو (فد کرد

مؤنث) ح حَسُدٌ:

الْحَسَادُ: بہت حد کرنے والا۔

الْمَحْسُودَةُ: باعث حد۔

الْحَسْدَلُ: چیڑی۔

حَسْرَانُ (ض) حَسْرُوزًا: البصر: نگاہ کا تھک

جانا۔ الشَّيْءُ: کھل جانا _____ الماء: نیچے اتر جانا

_____ حَسْرًا: الرجل والداية: جھٹلانا۔

حَسْرَانُ (ض) حَسْرًا: الشَّيْءُ: کھولنا۔ کہا جاتا

ہے "حَسْرٌ كُفْمٌ عَنِ ذِرَاعِهِ" یعنی اس نے

آستین چڑھائی۔ "وَحَسْرَتِ الْجَارِيَةِ حَمَازٌ هَا

عَنْ وَجْهَيْهَا" یعنی لڑکی نے اپنی ادرغنی اپنے چہرہ

سے ہٹا دی۔ صفت مؤنث (حایب) ح حَسْرٌ وَ

حَوَائِيسٌ:

الْحَسْرُ: میدان جنگ کے پیادے جن کے سر

اور چہرے کٹے ہوئے ہوں یا جن کے جسم پر زہ

اور سر پر خود نہ ہوں _____ الفصن: چھیلنا

_____ البيت: جھاڑو دینا _____ الدابة: چلا کر

تھکانا۔

حَسِرُ (س) حَسْرًا: تھکانا۔ (_____ حَسْرًا وَ

حَسْرَةً) افسوس کرنا۔

حَسْرٌ: الطیور: پروں کا گرنا حَسْرَةً: افسوس

بچہ مر جائے تو اس کے لیے افرطہ آتا

ہے _____ عند اللہ خیرُ الثواب کی امید رکھنا۔

کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يُحْتَسِبُ بِهِ" یعنی فلاں

اس کے مقابلہ میں کسی شرمیں نہیں و "فَلَانٌ

اسْتَعْطَانِي فَأَحْسَبْتُهُ" فلاں نے مجھ سے

علیہ مانگا اور میں نے اس کو کافی دیا۔

الْحَايِبُ: حاسب داں۔ ح حَسْبَةُ

الْحَسْبُ: مد۔ کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے

"حُسْبُكَ دَرْهَمٌ" اور باغ کی زیادتی سے

"بِحُسْبِكَ دَرْهَمٌ" بھی کہا جاتا ہے یعنی

تمہارے لیے ایک درہم کافی ہے۔ و "هَذَا رَجُلٌ

حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ" یہ مرد تمہارے لیے اس

مرد سے کافی ہے و "زَيْدٌ صِدْقِي فَحَسْبِي" او

فَحَسْبُ" زید میرا دوست ہے اور میرے لیے

کافی ہے۔

الْحَسْبُ: حَسْبُ كَامِدٍ: عدد۔ اندازہ کہا

جاتا ہے "هَذَا بِحَسْبِ ذَاكَ" یہ اس کے

موافق ہے و اَعْمَلُ عَلِيٍّ حَسْبُ مَا أَمَرَكَ"

یعنی کر اس کے موافق جیسا میں نے تم کو حکم دیا

ہے۔ "وَحَسْبُ مَا دَكَّرَ" موافق اس کے جو ذکر کیا

گیا۔ خاندانی شرافت: آباء و اجداد کے مفاخر۔

الْحَسْبُ: شمار کیا ہوا۔

الْحِسَابُ: مد۔ شمار۔ کافی۔ کہا جاتا ہے

"أَعْطَاهُ عَقْلًا حَسَابًا" اس نے اس کو کافی دیا۔

لوگوں کی بڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے "انابی

حَسَابٌ مِنَ النَّاسِ" جیسا کہ کہا جاتا ہے "جَاءَ

نَبِيٌّ عَدَدٌ مِنْهُمْ وَيَرْزُقُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ

حَسَابٍ" اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی دنگی کے

رزق دیتا ہے۔ حَسَابٌ الْجُمَّلُ: حروف ابجد کا

حساب۔ يَوْمَ الْحِسَابِ: قیامت کا دن۔

الْحِسَابِيُّ: حساب داں۔

الْحَسْبَةُ: مد۔ میت کو پتھروں میں یا کفن کر دینے

کرنا۔ ثواب: جزا۔ ح حَسِبُ:

الْحَسِيبُ: خاندانی شرف والا۔ حساب جانچ کر

کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا"

الْحُسَيْنَانُ: حساب۔ چھوٹے تیز۔ واحد

(حُسَيْنَانَةٌ)

الْحُسْبَانَةُ: کڑک۔ بادل۔ اولے۔ چوٹی)

حَسْفُ: العمر: ردى كجوروں سے صاف
كرنا۔

تَحَسْفُ: الجلد: جھلنا۔ ادباز اابل:
اونٹ کے بالوں کا جھرنانا۔

إِنْحَسَفَ: الشئ لى يدى: ريزه ريزه ہوتا۔
الحُصاف: كھائى ہوئی چیز کا تھوڑا بقير۔

الحُصافة: ردى كجوریں یا كجور کے چھلڪے۔
كما جاتا ہے۔ "فلان لا يعطى من البئر

الانسافته و من التمر الا حُصافته" فلاں
گيبوں كى صرف پھلكن اور كجوروں میں سے

مرف ردى كجوریں ديتا ہے۔ تھوڑا پانی۔
حُصافَةُ الناس: رزيل لوگ۔ (الحُصافة

والحُصيفة) دشمنی۔ غصہ۔ كتنے ہیں "وَجِعَ
بِحُصِيْفَةٍ لِنَفْسِهِ" بغير اپنى حاجت پورى كتنے

ہوئے واپس ہوا۔
الحُصْفَةُ: پترا بابل۔

الجُحْفِيلُ وَالْحُصْفِيلُ: ردى۔ چھوٹے
لڑكے۔

الجُحْفِيلُ: كشاہہ پيٹ والا۔
الجُحْفِيلُ: چھوٹے بچے۔

حَسِكَ (س) حَسِكَ: عليه: غضبناك ہونا۔
صفت (حَسِكَ) الذابَة: چارہ كھانا دانہ چنانا۔

أَحْسَنَكَ: الذابَة: چارہ دینا۔
النبات: كائے وار ہونا۔

الحَسَك: سد۔ كائے وار پودہ۔ بارىك ہڈى
واحد (حَسَكَة)

الحُصِيْكَةُ: جانور كادانہ۔ سبى۔
(والحُصِيْكَةُ وَالْحُصَاكَةُ) دشمنی۔ كينہ۔

الحُصِيْكُ: پست قد۔
حَسَكْلُ حَسَكْلَة: چھوٹے دانوں كو ذبح

كرنا۔
الحَسَكْلُ: ردى۔

الجُحْسِكِيلُ: چھوٹا بچہ۔ ج حَسَكْلَة و
حَسَاكِيلُ: چنگاری۔ جو گرم لوہا كوتنے وقت

اڑے۔
حَسَل (ن) حَسَلًا: الشئ: زيل كرنہ۔
الذابَة: تيزا كٹنا۔

حُصِيلُ: پہ: زيل كيا جانا۔

حَسَلٌ: بنفسه: اپنے آپ كو زيل كرنہ۔ دانت
انقرار كرنہ۔

تَحَسَّلُ وَإِحْتَسَلُ: گوہ کے بچے كا شكار كرنہ۔
الجُحْسَلُ: گوہ كا بچہ۔ ج حَسَلَة و أَحْسَل و

حُشُول و جُحْلَان: كما جاتا ہے "لا آتِيكَ سِيْبُ
الجُحْسَلُ" يعنى میں تمہارے پاس كبھی نہیں آؤں

گا چونكہ گوہ کے دانت موت تك نہیں گرتے اس
لئے دوام سے كلياہ كيا گیا اور لفظ بسن

منصوب بنزع الحافظ ہے اس وجہ
سے كہ تقدیر مدّة بقاء سن الحسيل ہے۔

ابو حُجْسَل و ابُو حُجْسَلِ: گوہ۔
الحُصَالَة: چاندی۔ چاندی کے ذرات جو غير

كى بھوسى۔ (والحُصَيْلَة: قوم کے اوتلى ررچہ کے
لوگ۔

الحُصَيْلُ: گائے کے بچے واحد
(حُصَيْلَة) گھٹيا چیز ج حُصَيْلُ

المُحْصَوْلُ: گھٹيا۔ ردى۔
حُصَمَة (ض) حُصَمَاءُ: جڑ سے كاٹنا۔ حَسَمَ

العزق: رگ كاٹ كر خون روكنے کے ليے واغ
دینا الذابَة: مرض كو دوا سے دور كرنہ۔

حُصَمَة الشئ: روكنا منع كرنہ۔
إِنْحَسَمَ: جڑ سے كٹنا۔

الأَحْسَمُ: باخبر فيصلہ كن مرد۔
الحُصُومُ: نامبارك۔ منحوس۔ كما جاتا ہے

"إِنَّمَا حُصُومٌ" (على الوصف) "إِنَّمَا
حُصُومٌ" (على الاضافة) يعنى نامبارك و منحوس

دن۔
الحُصَامُ: شمشیر بران۔ حُصَامُ السيف:

كواری كى دھارہ۔
المُحْصَمَة: كائے كا ذريہ۔ كما جاتا ہے "هذا

مُحْصَمَة لِلدَاءِ" یہ مرض کے دور كرنے كا ذريہ
ہے۔

المُحْصَمُومُ: دودھ جھڑايا ہوا بچہ۔ وہ بچہ جس كو
برى خوراك دئی گئی ہو۔

الحُصَيْمَانُ: گندى رنگ كا موٹا مرد۔
حَسَنٌ و حَسَنٌ (ك) (ن) حَسَنًا: خوبصورت

ہونا۔ صفت (حَسَنٌ ج حَسَان و أَحْسَان) ج
حُسَانُون و أَحْسَانِين و حُسَيْنٌ (مؤنث حَسَنَةٌ و حُسَيْنَةٌ

حَسَنَاءُ ج حَسَنَات و حَسَنَات اور مبالغہ کے
لئے (حُسَانٌ مؤنث حُسَانَة۔

حَسَنَاءُ: آراستہ كرنہ۔ خوبصورت بنانا۔
حَاسِنَةٌ مُحَاسِنَةٌ: خوبصورتى میں مقابلہ كرنہ۔

زبى برتتا۔ نيك سلوك كرنہ۔ كما جاتا ہے "إِنِّى
لَأَحَابِسُ بَلْكَ النَّاسِ" میں تمہارى خوبىوں كى

دج سے لوگوں پر فخر كرتا ہوں۔
أَحْسَنٌ: نيكى كرنہ۔ اچھى طرح سے كرنہ۔

الشئ: اچھى طرح بنانا۔ اچھى طرح جاننا۔
كما جاتا ہے "فلان يُحْسِنُ القراءَة" فلاں

اچھى طرح پڑھتا ہے۔ الیہ وہ: نيك
سلوك كرنہ۔ نيكى كرنہ۔

تَحَسَّنٌ: خوبصورت ہونا۔ اچھا ہونا۔
بكذا: آراستہ ہونا۔ موٹنا۔ كما جاتا ہے "دَخَلَ

الحَمَامُ فَتَحَسَّنَ" وہ حمام میں داخل ہوا اور
حجاست بنائى۔

إِسْتَحَسَّنَهُ: اچھا جاننا۔
الحُسْنُ: جمال و خوبصورتى۔ ج مُحَاسِنٌ

(غلاف قیاس) المحاسين: بدن کے
خوبصورت مواقع حُسْنٌ مَسَاعِدَة: ایک قسم كى

بہاتات ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے كھلتى اور
طلوع آفتاب کے بعد مرجھا جاتى ہے چونكہ اس

كى خوشنائى تھوڑى دير كيلے ہوتى ہے اس ليے
اس كا یہ نام ہے۔ سِتُّ الحُسْنِ: ایک قسم كى

بہاتات جو درختوں پر لپٹی ہوتى ہوتى ہے اور اس
كا پھول عمدہ خوبصورت ہوتا ہے۔ الحُسْنُ:

كهنى کے پاس ایک ہڈى كا نام۔
الحُسْنُ: كهنى کے پاس كى ہڈى۔

بَلْدَةٌ ثَلِیَّةٌ: الحُسْنَانُ: سبز ناصحن و سبز ناصحن
بڑھاتا۔

الحَسَنَة: نيكى۔ بھلائى۔ ج حَسَنَات۔
الأَحْسَنُ: حسن كا اسم تفضيل۔ ج أَحْسَانٌ

مؤنث حُسْنى اور كبھی شاذ طریقہ سے اس كى
تفسير أَحْسِينٌ لاتے ہیں اور كتنے ہیں "ما

أَحْسِينٌ زَيْدًا"۔ أَحَابِسُ القوم: قوم
کے خوبصورت لوگ۔

الحُسْنى: اچھا كام۔ اچھا انجام۔ اللہ تعالیٰ كو
ديكھنا۔ كاميابى۔ شمرت۔ ج حُسْنِيَات و حُسْنِ

الاسماء الحسنى: اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام۔

الحسنيان: فتح مندی و شادیت۔ کہا جاتا ہے "حُسَيْنًا وَ حُسَيْنًا ؕ اَنْ يَفْعَلَ كَذَا" اس کیلئے انتہا ہے اور جن کاموں کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے ان میں بہتر ہے کہ ایسا کرے۔ الحشون: ایک خوبصورت خوش آواز چھوٹا سا پرندہ۔

المحسنان: بہت بھلائی کرنے والا۔ التحاسين: اچھی چیزیں۔ کہا جاتا ہے "ما اَبْدَعَ تَحَاسِينِ الظَّوْءِ وَ تَرَائِيهِ" سور کی خوبی اور زینت کس قدر نادر اور عجیب ہے۔ المحسنة: سبب حسن۔ کہا جاتا ہے "هذا طعامٌ مُحَسَّنٌ لِلْجَنِينِ" یہ خوراک جسم کیلئے باعث حسن ہے۔

الحسنة: پہاڑ کا ٹکڑا ہوا گوشہ۔ حَمَا (ن) حَسْوًا وَ تَحْسِيًا وَاحْتَسِيًا المرق: تھوڑا تھوڑا پینا۔ الطائر الماء: چرچ سے پانی پینا۔

حَسِيًا وَ أَحْسِيًا وَ حَاسِيًا: الرجل المرق: تھوڑا تھوڑا پلانا۔ تحاسيتا: ایک دوسرے کو شہر پلانا۔

الحسوة والحسوا والحسوة والحسوة: ہر رقیق چیز جو پی جا سکے۔ اور اسی سے ہے "يَوْمٌ كَحَسْوِ الطَيْرِ" یعنی بہت چھوٹا دن۔ ایک قسم کا کھانا جو آکا اور پانی ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ الحسوة: بہت گھونٹ گھونٹ پینے والا۔ الحسوة: حسا کا اسم مرہ۔ گھونٹ۔ ح حسوات۔

الحسوة: ایک مرتبہ گھونٹ لگانے کا اندازہ۔ کہا جاتا ہے "في الإناء حَسْوَةٌ" برتن میں ایک گھونٹ کی مقدار ہے۔ ح أَحْسِيَةٌ وَ أَحْسُوَةٌ وَ حِجْ أَحْسَا۔

الحسوة: وہ چیز جو پی جا سکے۔ حَسِي (ض) حَسِيًا وَ أَحْسِيًا: نرم دلدلی زمین۔ المحساة: پانی پھیننے کا تیل۔ حَش (ن) حَشًا: العشب: کاٹا۔

النار: سلگان اور کریدنا۔ الحرب: بھڑکانا۔ الفرس: گھاس ڈالنا۔ اور اسی سے حش ہے۔ "أَحْشَكَ وَ قَرَوَيْتِي" میں تیرے لئے گھاس ڈالتا ہوں اور تیرے اوپر لیر ڈالتا ہے یعنی میں تیرے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور تیرے ساتھ بڑائی سے پیش آتا ہے۔ المان: بڑھانا۔ زیادہ کرنا۔ الصيد: دونوں جانب سے گھیرنا۔ حَسْبُ البئذ: حش ہونا۔ الولد في بطن الناقة: بیٹ میں خشک ہونا۔ الفرس: تیز دوڑنا۔

أَحْش: الكلاء: کاٹنے کا وقت قریب آنا۔ الارض: گھاس والی یا بہت گھاس والی ہونا۔ أَحْشَة: گھاس کاٹنے میں مدد دینا۔ أَحْسَبُ الناقة: او المرأة: بیٹ میں پختہ خشک ہونا۔ صفت (ضعف) أَحْشَة عن حاجته: جلدی کرنا۔ أَحْشَل: الحَشِيش: گھاس جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ اسْتَحْشَل: الرجل: پیاسا ہونا۔ العصف: لمبی ہونا۔ البئذ: حش ہونا۔ العظم: باریک ہونا۔

الحشيش: خشک گھاس۔ واحد (حَشِيشَة) الحَشِيشَة: بھنگ۔ الحشاشة والحشاش: مریض یا زخمی کی بقیہ روح۔ کہا جاتا ہے "حَشَاشَا كَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا": تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ الحش والحش والحش والحش: باغ۔ گھجروں کا جھنڈ۔ پائنتانہ۔ ح حشوش وحشون۔ الحش بالضم: ہاں کے بیٹ میں مرہ پختہ۔ الحش بالكسر: کچھ۔ الحش بالفتح: چھوٹا مرہ یا ہوا گھجور کا پودہ۔ ح حشان۔ الحشنة: بڑا قبہ۔ الحشاش: گھاس کی گون۔ ہر چیز کا کنارہ۔ ح أَحْشَة۔ الحشاش: گھاس کا جمع کرنے والا یا پیچنے والا۔ بھنگ پینے والا۔ ح حشاشون وحشاشه۔ الأَحْشُوشُ وَ المَحْشُوشُ: ہاں کے بیٹ میں خشک پختہ۔ المحش والمحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح حشاش: المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

تَحَشَّكَ - الضرعُ: دودھ سے پر ہوتا۔
 الحَشْكَةُ: بارش کی بوجھار۔
 الحَشْكَةُ: جماعت۔ کہا جاتا ہے ”حشاء و
 بَحَشْكِيهِمْ“ لوگ اپنی جماعت کے ساتھ
 آئے۔
 الحَشْيِكَةُ: جانوروں کے کھانے کیلئے جو
 وغیرہ (الرياح الحواشك) مختلف جہات
 سے چلنے والی ہوائیں۔ واحد (حاشيكة)
 الحَشَاكَةُ والحَشَاك: کھڑکی جو جانور کے
 بچے کے منہ میں لگادی جائے تاکہ دودھ نہ پی
 سکے۔
 حَشَل (ن) حَشَلًا - الشئ: حقیر و ذلیل کرنا۔
 الحَشَل: حقیر و ذلیل چیز۔
 حَشْمَةٌ (ن) ض: حَشْمًا: ناپسند بات سنا کر
 غضبناک کرنا۔ تکلیف پہنچانا۔ شرمندہ کرنا۔
 الشئ: طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے مَا حَشَمْتُ
 الضئذ! اس نے شکار کو نہیں پایا و ”مَا حَشَمْتُ مِنْ
 طَعَامِنَا“ اس نے ہمارے کھانے سے نہیں
 کھایا۔
 حَشْمٌ (ض) حَشْمًا: تھکانا۔ لاغری کے بعد
 فریہ ہونا۔ منہ: متعجب ہونا۔
 حَشْمٌ (س) حَشْمًا: غضبناک ہونا۔
 حَشْمًا: غضبناک کرنا۔
 حَشْمَةٌ وَأَحْشَمَةٌ: غضبناک کرنا۔ شرمندہ
 کرنا۔ وَحَشْمَةٌ: تکلیف پہنچانا۔
 حَاشِمَةٌ: غضبناکی پر برا لگینے کرنا۔
 تَحَشَّمَ: من فلان: شرم کرنا۔ زمت سے
 بچنا۔
 إِحْشَمٌ: منہ و عنہ: غضبناک ہونا۔ متعجب
 ہونا۔ شرم کرنا۔
 حَشْمٌ: الرجل: نوکر چاکر۔ کسی شخص کے وہ
 قربت دار یا غلام یا ہمسائے وغیرہ جو اس کے لئے
 دوسروں پر غضبناک ہوں یا جن کی وجہ سے یہ
 غضبناک ہو۔ اہل و عیال۔ قربت جِ أَحْشَامٍ۔
 الحَشْمَةُ: غضب۔
 الحَشْمَةُ: شرم و حیا۔ القراض: غصہ و غضب۔
 الحَشْمَةُ: عورت قربت ڈمدمداری۔
 الحَشِيم: کال حیا دار۔ پڑوسی۔ مسمان ج۔

جاتا ہے۔ ہاڑ کا گڑھا جس میں پانی صاف ہو۔
 حَشَطٌ (ض) حَشَطًا: اناة: ڈھکنا۔ کھولنا
 العجل عن القوس: جھول آنا کرنا۔
 الجلد: کھال آنا کرنا۔
 حَشَفٌ (ض) حَشَفًا: الضرع: دودھ خشک
 ہو جاتا۔
 أَحَشَفَت: النخلة: ردی کھجور والا ہونا
 حشغ الناقة: سگڑنا۔ سٹنا۔
 حَشَفٌ: عينه: آنکھیں بھیج کر دیکھنا۔
 تَحَشَفٌ: پرانا کپڑا پہننا۔
 اسْتَحَشَفَ: أذن الإنسان: خشک ہو کر سٹنا
 حشغ الأنثى: سگڑنا۔ سٹنا۔
 الحَشَف: ردی کھجور ”أَحَشَفًا و شؤء
 كئيلة“: (ردی کھجور اور پھر کم ناپ) اس شخص
 کے حق میں بطور ضرب المثل کے بولتے ہیں جس
 کے اندر دو بڑی عادتیں جمع ہوں۔ جیسے آرد میں
 ”کرلا اور شیم چڑھا“۔ خشک پستان۔
 الحَشْفَةُ: فُضْلٌ جو کھیت کٹنے کے بعد باقی رہ
 جائے۔ خشک خمیر گول چھوٹا تزییرہ جس پر پانی نہ
 چڑھ سکے۔ ج حَشَفًا۔
 الحَشْفَةُ: عمود تاسل کی سپاری۔ بہت بڑھیا
 عورت۔
 الحَشَافَةُ: تھوڑا پانی۔
 الحَشِيْفُ: پڑا کپڑا۔
 حَشَكٌ (ض) حَشَكًا و حَشُوْكًا: الضرع: دودھ
 سے پڑ ہونا۔ المسحاب: بہت پانی
 والا ہونا۔ النخلة: بہت پھلدار ہونا۔
 صفت (حاشيك) الوادی: پانی کو باہر
 پھینک دینا۔
 القوم: جمع ہونا۔ الريح: مختلف
 جہات سے چلنا۔ الناقة لبئها: حشمن میں
 دودھ جمع کرنا۔ صفت (حَشُوْك) الناقة:
 دودھ جمع ہونے کے لئے حشمن میں چھوڑ دینا۔
 صفت مفعول (مَحَشُوْكَة)
 حَشِيْكَةٌ (س) حَشَكًا: الدابة: جو فریہ چاتا۔
 حَشِيْكُ اللبن: فی الضرع: جلدی سے حشمن
 میں دودھ جمع ہونا۔
 أَحْشَلُ: الدابة: جو فریہ کھاتا۔

الحَشُوْد: حشمن میں جلدی دودھ جمع کرنے
 والی اونٹنی۔
 المَحَشُوْد: وہ شخص جس کی خدمت کرنے
 میں لوگ چست ہوں۔
 المَحَابِيْذُ: محفلیں۔ مجالس۔
 حَشْرٌ (ن) ض: حَشْوًا: الناس: جمع کرنا
 ه عن وطنه: جلا وطن کرنا۔ حَشْرٌ
 الجمع: ایک جگہ سے دوسری جگہ نکالنا
 العود: چھیننا اور باریک کرنا۔
 السنة الشديدة المال: مال یعنی اونٹوں کو لاغر
 کر دینا اور ہلاک کر دینا۔
 حَشِرٌ و أَحْشِيْرٌ: فی راسه: بڑے سرو والا
 ہونا۔ علی هذا القياس: حَشْرٌ فی بطنه:
 بڑے پیٹ والا ہونا اور جسم کے ہر حصے کے ساتھ
 مستعمل ہے۔ حَشِرٌ و التَّوْحُوشُ: مرنا اور ہلاک
 ہونا۔
 الحَشْرُ: من الاذان: باریک کان۔
 کہا جاتا ہے۔ ”أُذُنٌ حَشْرٌ“ وَأُذُنَانِ حَشْرٌ
 وَأُذَانِ حَشْرٌ۔ ساری صورتوں میں واحد ہی
 مستعمل ہے۔ اس وجہ سے کہ مصدر ہے۔
 الحشر من الاسنة: باریک نیزہ۔ ج حَشْرٌ۔
 يَوْمَ الحَشْرِ: قیامت کا دن۔
 الحَشَاةُ: معمول ررج کے لوگ (بعضوں
 کے نزدیک ”الحشارة“ کی تعریف ہے)۔
 الحاشير: نا۔ ج حَشَارُونَ و حَشَارٌ۔
 الحَشْوَةُ: جھلکا جو دان سے ملا ہوا ہو۔ ج
 حَشْرٌ۔
 الحَشْوَةُ: ج حَشْرَات: کبیرا کھوڑا یا چھوٹے
 چھوٹے جانور۔
 الحَشْرُ: بھوسی۔
 الحَشْوَرٌ: بڑے پیٹ والا۔ چھوٹے ہوئے
 پہلوں والا۔ لطیف قد و قامت والا۔ کہا جاتا ہے
 ”فهرس حَشْوَرٌ“ یعنی ذیل ڈول کا چھوڑا۔
 المَحْشَرُ و المَحْشِرُ: لوگوں کے جمع ہونے
 کی جگہ۔
 حَشْرَجٌ حَشْرَجَةٌ: جاں کنڈنی کے وقت
 ٹھنڈکرو کا ہونا۔
 الحَشْرَجُ: آب خورہ جس میں پانی ٹھنڈا کیا

یام بال والا ہوتا۔ صفت (احص) حصص۔ الامور: ظاہر ہوتا۔
 احصاء: حصہ دینا۔ احصاء المكان: جگہ میں آتا رہا۔
 خاص: مخصوص۔ الغرماء: جسے تقسیم کرنا۔
 قحاص: القوم الشئی: آپس میں جسے تقسیم کرنا۔
 انحصن: الشعور: بجزنا، گرتا۔
 اللحية: ٹوٹے ہوئے بالوں والی ہونا۔
 الذئب: بک جانا۔
 الحصاص: سرکے بالوں کی کمی۔ سرکے بالوں کا چھوٹا ہونا۔
 الحصة: حصہ۔ ج حصص۔
 الحصن: زعفران۔ موتی۔ ج حصوص و احصاص۔
 الحصاص: دوڑنے کی تیزی۔ خارش۔ گوز۔
 الحصاص: انگوڑ کائے کے بعد ٹٹی میں جو باقی رہ جائے۔
 الحصاصاء: خاک۔
 الحصاص: ایک بیماری جس سے سرکے بال گر جاتے ہیں۔
 الاحصن: سر میں کم بالوں والا۔ وہ شخص جس کے سینہ میں بال نہ ہوں۔ من الطيور: پرندہ جس کے بازو کے پر گر گئے ہوں۔ مؤنث حصاء: بڑا حصص: بغیر بدل کے سخت سردی کا دن۔ سبب احصن: بغیر جوہر کے کوار۔ سنہ حصاء: خشک سال جس میں پیداوار نہ ہو۔ ریح حصاء: بغیر غبار کے صاف ہوا۔
 الحصین: عدد۔ کہا جاتا ہے "حصینضہم کذا" ان کی تعداد اتنی ہے۔ گدھے، اونٹ کے گرے ہوئے بال۔
 الحصینة: مؤنث کر یا اکھڑ کر حصے کئے ہوئے بال۔ کان کے بال۔
 حصا و حصی (س) حصا: الرضیع: حکم سیر ہو کر دودھ پینا۔ من الماء: سیراب ہوتا۔
 احصاء: سیراب کرنا۔
 حصبة: (ن ض) حصبا: لنگری سے مارنا اور

المحشى: پیٹ میں کھانے کی جگہ۔
 المحشى: گدی جس کو عورتیں بدن کے کسی حصہ کو نمایاں ہونے کے لئے باندھتی ہیں۔ ج محاشی۔
 المحشاة: من البطن: پیٹ کا وہ نچلا حصہ جس میں کھانا رہتا ہے اور جو مخرج تک پہنچتا ہے۔
 حشی (س) حشی: الرجل: ضیق النفس کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ السقاء: منک کے اندرونی حصہ میں دودھ کی بند جم جانا۔
 حشی: الثوب: گوٹ لگانا۔ الكتاب: حاشیہ لکھنا۔ صفت قاطعی (محش) اور مغفولی (محشی)۔
 حاشا: حاشاة: زیادہ من القوم: اشتاء کرنا۔
 تحشی: فلانا: اشتاء کرنا۔ تحشی من الشئی: (و تحاشی) عن الشئی: بچنا، ڈور رہنا۔
 وتحشی فلان: مذمت سے بچنا۔
 الحشى: ضیق النفس کی بیماری۔ پیٹ کے اندر کی چیزیں جیسے کلیجی، تلی، او جھری وغیرہ ج احشاء۔
 حاشا: کلمہ اشتاء جس کے زریعہ مستحی کو مستحی مذ کے حکم سے تنزیہاً خارج کیا جاتا ہے جیسے صریت القوم حاشا زیدا۔ ای وہ ہے کہ صلی الناس حاشا زیدا کہنا مستحسن نہیں اس لئے کہ تنزیہ کے معنی نہیں بنے۔ اگر حاشا، فعل ہو تو نصب ہو گا اور اگر حرف جر ہو تو مابعد حاشا پر جر آئے گا۔
 الحاشیة: گوٹ۔ کنارہ۔ اہل و عیال اور خاص اپنے لوگ۔ کتاب کا حاشیہ۔ ج حواش۔ کہا جاتا ہے "رجل رقیق الحواشی" اچھی صحبت کا مرد۔ "و کلام رقیق الحواشی" نرم گفتگو۔
 الحشی: مؤنث حشیة و (الحشیان) مؤنث حشیاء: ضیق النفس کی بیماری میں مبتلا ہونے والا۔
 حص (ن) حصا: الشعر: مؤنثا۔
 الجلیذ الثبت: پالے کا بنا تکت کو جلادینا۔
 حصنی من المال کذا: مال میں سے حصہ مقرر کرنا۔ الشئی: لگانا۔ کتاب لیا۔
 حص (س) حصصا: گرے ہوئے سرکے بال

حشماء۔
 حشین (س) حشنا: السقاء: دیر تک دودھ رسنے کی وجہ سے بدبودار ہونا۔
 احشمن: السقاء: بدبودار کرنا۔
 حاشنا: باہم گال گلوچ کرنا۔
 تحشمن: سیلا ہونا۔ کمائی کرنا۔
 الحشمن: دودھ کی چکنائش کی وجہ سے میل پکین۔
 الحشنة: کینہ۔
 حشنا (ن) حشوا: الوساڈة بالفطن: تکیہ میں روٹی بھرنا۔ الرجل: کسی کے حشا پر مارنا۔ (دیکھئے لفظ الحشا)۔
 حاشاء: تموڑی چیز ہوتی۔
 احتشی احتشاة: بھر جانا۔ کہا جاتا ہے "احتشيت الرمانة بالخب" انار دانوں سے بھر گیا۔ و احتشی من الطعام" وہ کھانے سے آسودہ ہو گیا۔ "احتشيت المرأة الحشينة" وہاں عورت نے حشينة کا استعمال کیا۔ (دیکھئے لفظ الحشينة)۔
 الحاشیة: من الناس و الابل: چھوٹے چھوٹے جن میں بڑے نہ ہوں۔
 الحشاة: بلیوں کے اندر کی چیزیں۔ پیٹ کے اندر کی چیزیں۔ ج احشاء: کہا جاتا ہے "انافی حشاً۔ فلان" میں فلاں کی پتہ میں ہوں۔ "و فلان خیر ہم حشاً" فلاں ان میں سے حماقت کے لحاظ سے بہتر ہے۔
 الحشو: دھ۔ چھوٹے چھوٹے آدمی یا اونٹ کلام کی زیادتی۔ رذیل لوگ وہ چیز جس سے کوئی چیز بھری جائے۔ سالہ جو بکری کے بچے کے پیٹ میں بھرا جائے۔ ج الحشاشی: (خلاف قیاس) الحشوة و الحشوة: من البطن: آنتیں ردی چیز۔ کہا جاتا ہے "هو من حشوة بنی فلان" وہ بنو فلان کے رذیل لوگوں میں سے ہے۔
 الحشیة: توشک۔ گدی جس کو عورتیں بدن کے کسی حصہ کو نمایاں ہونے کے لئے باندھتی ہیں۔ ج حشایا۔
 الحشوی: بک بک کرنے والا۔

حَصَبُ الْمَكَانِ: نگر پھانا۔

حَصَبٌ فِي الْأَرْضِ: جانا۔ عہ: تیز
بھاگنا حَصَبَهُ عَنْ كَذَا: دُور کرنا۔

حَصَبٌ (س) حَصْبًا وَحَصَبٌ: کھسرا کی
پتاری میں جٹلا ہونا۔ صفت (مَحْصُوب)
حَصَبٌ الْوَتْرُ: تانت کا کمان سے الٹ جانا۔

أَحْصَبَ: الفرسُ فِي عَدُوهِ: نگر کرنا
عَنْ كَذَا: دُور کرنا۔

تَحَصَّبَ: الْحَمَامُ: روانہ کی تلاش میں جنگل
کی طرف اڑنا۔

تَحَاصَبُوا: ایک دوسرے پر نگر کرنا پھینکانا۔
الْحَصَبُ: پتھر۔ نگر بڑھانے والا۔

الْحَصِيبُ: دودھ جس کا کھن سر ہوئے کی
وجہ سے نہ نکلا ہو۔

الْحَصْبِيَّةُ وَالْحَصْبِيَّةُ وَالْحَصْبِيَّةُ: کھسرا
(ایک بیماری کا نام) الْحَصْبِيَّةُ: نگر کرنا کو اڑانے

والی تیز ہوا۔ ارضِ حَصْبِيَّةٌ: بہت نگر کر والی زمین۔
لَيْلَةُ الْحَصْبِيَّةِ: ایام تشریق کے بعد والی رات۔

الْحَصْبَاءُ: نگر بڑھانے والا۔ (حَصْبِيَّة)
الْحَاصِبُ: نگر کرنا کو اڑانے والی تیز ہوا۔

اولہ۔ اولہ برسانے والا۔ اول۔ جِ حَاوِاصِبٍ:
الْمُحْصَبِيَّةُ: بہت نگر کر والی زمین۔

حَصْحَصَ حَصْحَصَةً: الحَقُّ: پوشیدگی
کے بعد ظاہر ہونا۔ الرَّجُلُ: پیر میں بیری

پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔
الشَّقِيُّ فِي الشَّقِيِّ: مضبوط و مستحکم کرنے کیلئے

حرکت دینا۔ التراب وغيره: دائیں
بائیں ہلانا۔

تَحَصَّصَ: زمین سے چٹنا اور برابر ہونا۔
الْوَبْرُ وَالزَيْتِيُّ: اُدُنْ يَارُوْنِ كَابْحَرُ جَانَا۔

الْحَصْحَصُ وَالْحَصْحَصُ: مٹی
والْحَصْحَصُ: پتھر۔ رَجُلٌ حَصْحَصٌ وَ

حَصْحُوصٌ: معاملات کے پیچھے پڑ کر نہ تک
پہنچنے والا۔

حَصَدٌ (ن) حَصَدًا وَحَصَدًا: حَصَادًا
وَإِحْصَادًا: الزَّرْعُ: دارِ تَقِيٍّ سَ كَانَا: اِسِيٍّ سَ

سَ: مَنْ زَرَعَ الشَّوْحَصَدَ التَّدَامَةَ: جو بڑا آئی

بڑے گا پھیلانی کالے گا۔ صفت (حَاصِدٌ) ج
حَصَدَةٌ وَحَصَادٌ

الْقَوْمُ بِالسِّيفِ: قَتْلُ كَرْنَا۔
حَصَدٌ (س) حَصَدًا: الْحَبْلُ: مضبوط بنی ہوئی

ہونا۔ الدَّرْعُ: مضبوط ہتھیار کا ہونا۔
أَحْصَدَ: الزَّرْعُ: کالے کا وقت قریب ہونا

الْحَبْلُ: بیٹنا۔
إِسْتَحْصَدَ: الْقَوْمُ: جٹھانا۔ الزَّرْعُ:

کالے کا وقت قریب آنا۔ الْحَبْلُ: مضبوط
بنی ہوئی ہونا۔ الرَّجُلُ: غھبٹنا۔ ہونا۔

الْحَصَادُ: کھیت کالنے والا۔
الْحَصَادُ وَالْحَصَادُ: کھیت کالنے کا وقت۔

الْحَصَادُ: کٹی ہوئی کھیتی۔ حَصَادُ الشَّجَرَةِ:
درخت کا پھل۔ کما جاتا ہے۔ "أَخَذُوا حَصَادَ

الشَّجَرِ" انہوں نے درخت کا پھل لیا۔ حَصَادُ
الْبُقُولِ التَّيْتِيَّةِ: دانے جو حرکت کرنے کی وجہ

سے گر جائیں۔
الْحَصَدُ وَالْحَصِيدُ وَالْحَصِيدَةُ: کھیت کا

کٹنا ہوا حصہ۔ الْحَصِيدَةُ: کھیتی کا وہ مٹھا حصہ جو
دارِ تَقِيٍّ سے کٹنے کے بعد رہ جائے۔ کھیتی۔ ج

حَصَالِدٌ وَ حَصَالِدُ الْأَلْسِنَةِ: جو باتیں
دوسروں کے حق میں کہی جائیں۔

الْأَحْصَدُ: مضبوط بنی ہوئی رستی۔ درخت جو
شک ہو گیا ہو مگر کھڑا ہوا۔ مَوْتٌ حَصَدًا: دَرْعٌ

حَصَدًا: تنگ حلقوں والی مضبوط زرہ۔ شَجَرَةٌ
حَصَدًا: بہت پتوں والا درخت۔

المِخْصَدُ: دارِ تَقِيٍّ۔
حَصْرَةٌ (ن) حَصْرًا: حَصْرًا: نکل ڈالنا۔ مِيرَا

الشَّقِيُّ: پورا لے لیتا۔ الْقَوْمُ: بفلان۔ کھٹی
ڈالنا۔ التَّبَعِيُّ: اُدُنْ كِي پیتھ پر گدلا

باندھنا۔
حَصْرٌ: قبض ہونا۔

حَصْرٌ (س) حَصْرًا: نکل کرنا۔ گھنگو کرنے میں
عاجز ہونا۔ بِالْبَسْرِ: چھپانا۔ الرَّجُلُ:

تنگ دل ہونا۔ عَنِ الشَّقِيِّ: شرم کر کے
چھوڑ دینا۔ صفت (حَصْرٌ وَحَصْرٌ وَحَصِيرٌ)

حَاصِرٌ وَ حَصَاظًا وَ مَحَاصِرَةٌ: العَدُوُّ:
معاشرہ کرنا۔ مِيرَا ڈال کر امداد کو روک دینا۔

أَحْصَرَهُ: عَنِ السَّفَرِ: روکنا۔ ہ
الْمَرَضُ أَوْ الْبَوْلُ: مرض یا پیشاب کا کسی کو

روک دینا۔
أَحْصَرَ: قبض ہونا۔

إِنْحَصَرَ: تنگ ہونا۔
إِنْحَصَرَ: التَّبَعِيُّ: گدلا باندھنا۔

الْحِصَارُ: گدلا جو اوٹ کی پیٹھ پر بیٹھنے کے
لئے استعمال ہوتا ہے۔ مَحَاصِرُ كِي:

الْحَصْرُ وَالْحَصْرُ: قبض۔
الْحَصِيرُ: بوریا۔ چٹائی۔ آدمیوں کی قطار۔

مجلس۔ پہلو۔ کما جاتا ہے "ذَابَةُ عَرِينُضِ
الْحَصِيرِيْنَ" چوڑے پہلوؤں والا جانور۔

موتڑے سے کمر تک کا گوشت۔ تنگ جگہ۔ قید۔
قيد خانہ۔ قیدی۔ راستہ۔ لوگوں کی نگاہوں سے

اور بھل بادشاہ۔ اور اسی سے ہے۔ "أَثَرُ حَصِيرِ
الْحَصِيرِ فِي حَصِيرِ الْحَصِيرِ" یعنی قید خانہ

کی چٹائی نے بادشاہ کے پہلو میں نشان ڈال دیا۔ ج
حَصْرٌ وَ أَحْصِرَةٌ۔

الْحَصِيرَةُ: بوریا۔ چٹائی۔ گھوڑے کے
موتڑے اور پہلو تک کا گوشت۔ ج حَصَانٌ۔

المِخْصَرَةُ: للجمل۔ گدلا۔
المُحْصِرُ: شیر۔

الْحَصِيرِيُّ: چٹائی بیچنے والا۔
الْحَصُورُ: تنگ دل۔ کھیل۔ خوفزدہ۔ کسی کام

سے رکنے والا۔ راز کا پوشیدہ رکھنے والا۔ باوجود
طاقت کے عورتوں کی طرف رغبت نہ رکھنے

والا۔
الْحَصْرِيَّةُ: کھٹی، کھلی۔

حَصْرٌ: الْقَوْسُ: مضبوطی سے تانت کتنا۔
الْحَبْلُ: مضبوط بننا۔ الْقَرْبَةُ: بھرنا

القلم: تراشا۔
تَحَصَّرَ: کھیل و تنگ دل ہونا۔

الْحَصْرُ: کچا سبزا انگور۔ کچا پھل واحد
(الْحَصْرَةُ) سخت۔ کھیل۔ پست۔ تدر۔ ہر چیز کا کھلیا۔

الْحَصْرُ: کنوئیں سے ڈول نکالنے کا کانا۔
حَصْفٌ (ك) حَصْفًا: مردانے اور بچہ محل

والا ہونا۔ صفت (حَصْفٌ وَ حَصْفٌ)
حَصْفٌ (س) حَصْفًا: خشک غارش والا ہونا۔

الحِصَانُ: موتی۔
 الحِصَانُ: اسیل گھوڑا۔ ہر ز گھوڑا۔ ج
 أَحْصِنَةُ وَحُصْنٌ
 الحِصِينُ: من الاماکن: مضبوط۔ کہا جاتا
 ہے ”دِنْعٌ حِصِينٌ“ مضبوط زرہ۔ و ”حِصْنٌ
 حِصِينٌ“ مضبوط قلعہ۔
 أَبُو الحِصْنِ: مُضَفَّرًا: بومڑی۔
 الحِصْنُ: زنجیل۔ کالا۔ عمل۔
 حِصَانٌ (ن) حِصْوَانٌ: روکا۔ منع کرنا۔
 الحِصْوَانُ: پیٹ کا درو۔
 حِصَى (ض) حِصْيَا: الرجل: ننگری سے
 مارنا۔
 حِصِيٌّ: مٹانہ میں پتھری کی پیاری والا ہونا۔
 صفت (مَحْصِيٌّ)
 حِصِيَّتُ (س) حِصَا: الارض: بہت ننگری
 والی ہونا۔ صفت (مَحْصَاةً)
 حِصَاةً تَحْصِيَةً: بچانا۔
 أَحْصَى: الشَّيْءُ: شمار کرنا۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا
 الْأَمْرُ لَا أَحْصِيهِ“ یہ ایسا امر ہے جس کی میں
 طاقت نہیں رکھتا۔
 تَحْصَى: بچنا۔
 الحِصَى: ننگری۔ واحد (حِصَاةً) ج
 حِصِيَّاتٍ وَ حِصِيٍّ وَ حِصِيٍّ وَ طَرِيقٍ
 الحِصَى: کمات اور چادو کے اعمال میں سے
 ایک عمل۔ والحِصَاةُ: عدد۔ عقل و رائے۔ کہا
 جاتا ہے ”فَلَا نَبِيَّ إِلَّا الْحِصَاةُ“ فلاں عاقل
 ہے۔
 الحِصِيٌّ: بڑا عقلمند۔
 أَرْضٌ حِصِيَّةٌ: بہت ننگریوں والی زمین۔ نمر۔
 (حِصْوِيٌّ) بہت ننگری والی ندی۔
 حِصَاةً (ن) حِطَاً وَ حِصْصَةً: علمی الامر:
 آگاہ۔ برا گیند کرنا۔
 تَحَاصَّ: القَوْمُ: ایک دوسرے کو برا گیند
 کرنا۔
 إِحْصَى: نَفْسَهُ: اپنے آپ سے زیادتی کا
 طالب ہونا۔
 الحِطْصُ: چیز (اس کا استعمال بیشہ نفی کے
 تحت میں ہوتا ہے) جیسے کہا جاتا ہے ”مَا عِنْدَهُ

ج حِصَائِلٌ۔ کہا جاتا ہے ”مَا حِصَيْتُكَ وَمَا
 حِصَائِلُكَ“ تمہارا حاصل کروہ کیا ہے۔
 المَحْصُولُ: حاصل۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا
 مَحْصُولٌ كَلَامِيہ“ یہ اس کے کلام کا نتیجہ ہے
 ”وَمَا الْفُلَانُ مَحْصُونٌ وَلَا مَغْفُونٌ“ یعنی فلاں
 کے لئے رائے و تیز نہیں ہے۔
 المِحْصَلُ: چھٹی۔
 الحِصْصَلُ: بیگن۔
 الحِصْلِبُ وَ الحِصْلِيمُ: مٹی۔
 حِصَمٌ (ض) حِصْمًا: گوز کرنا (بقول بعض
 گھوڑوں کے لئے مخصوص ہے)
 اِنْحَصَمَ العَوْدُ: ٹوٹنا۔
 اَلْحِصِيمُ: چھوٹی ننگریاں۔
 الحِصَامُ: گوز۔
 الحِصَامُ وَ الحِصْوَمُ: گوز کرنے والا۔
 الحِصْمَاءُ: گوز کرنے والی گدھی۔
 المِحْصِيَّةُ: لوہے کا تھوڑا۔
 حِصْنٌ (ك) حِصَانَةٌ: مضبوط و استوار ہونا۔
 صفت (حِصِينٌ)
 حِصْنَتٌ حِصْنًا وَ حِصْنًا وَ حِصَانَةٌ المَرْأَةُ:
 پاکدامن ہونا۔ صفت (حِصَانٌ) ج حِصْنٌ وَ
 حِصَانَاتٌ وَ حِصَانٌ وَ حِصَانِيَّةٌ ج حِوَانِجٍ وَ
 حِصَانِيَّاتٍ وَ (حِصْنَاءُ)
 حِصْنَةٌ (ن) ض) حِصْنًا: مضبوط جگہ میں محفوظ
 کرنا۔
 حِصْنٌ وَ أَحْصَنَ: المكان: مضبوط بنانا۔
 أَحْصَنَ: المَرْأَةُ: شادی کرنا۔ أَحْصَنَتِ
 المَرْأَةُ: شادہ شدہ ہونا۔ پاک دامن ہونا۔ صفت
 (مُحْصِنَةٌ) بفتح الصاد۔ أَحْصَنَ الرَّجُلُ:
 شادی شدہ ہونا۔ صفت (مُحْصِنٌ)
 تَحْصَنَ: اپنے لئے قلعہ بنانا۔ تَحْصَنَتِ
 المَرْأَةُ: عقیقہ پاکدامن ہونا _____ الفُرْسُ:
 اسیل ہونا۔
 الحِصْنُ: محفوظ و بلند جگہ۔ قلعہ۔ ہتھیار ج
 حِصُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔
 الحِصَانِ وَ الحِصَانِيَّةُ: پاکدامن یا شادی شدہ
 عورتیں۔ ج حِوَانِجٍ وَ حِصَانِيَّاتٍ۔
 الحِوَانِجِ: حاملہ عورتیں۔

حِصْفَةٌ (ن) حِصْفًا: ڈور کرنا۔
 أَحْصَفَ: تیز دوڑنا۔ صفت (مُحْصِفٌ وَ
 مِخْصِفٌ وَ مِخْصَافٌ) أَحْصَفُهُ: دور کرنا۔
 الامر: مضبوطی سے کرنا _____ التَّسْبِيحُ: گف
 بِنَا _____ الحَبْلُ: مضبوط بنا: الحَبْلُ فُلَانًا:
 ننگ خارش میں جتلا کر دینا۔
 اسْتَحْصَفَ: الشَّيْءُ: مضبوط ہونا۔
 _____ القَوْمُ: اکٹھا ہونا _____ الدَّهْرُ عليه:
 سخت ہونا _____ الحَبْلُ: مضبوط بنا۔
 الحِصْفِيفُ: ہرے عیب مضبوط چیز۔
 الحِصْفُ: ننگ خارش۔
 حِصَلٌ (ن) حِصْوَلًا وَ مَحْصُولًا:
 الشَّيْءُ: حاصل ہونا۔ ثابت ہونا۔ باقی رہنا۔ کہا جاتا
 ہے ”حِصَلٌ عَلَيْهِ مِنْ حَقِي كَذَا“ اس کے
 اوپر میرے حق میں سے اتنا باقی رہا _____ لَهْ
 كَذَا: واقع ہونا _____ عِنْدَهُ كَذَا: پایا جانا
 _____ على الشَّيْءِ: جمع کرنا اور مالک ہونا
 _____ لِي عَلَيْكَ كَذَا: ثابت ہونا۔ واجب
 ہونا۔
 حِصَلَتْ (س) حِصَالًا: الدَابَّةُ: جانور کا مٹی
 یا ننگری کھانے کی وجہ سے پیٹ کے درد میں جتلا
 ہونا۔
 حِصَلٌ: الشَّيْءُ او العِلْمُ: حاصل کرنا۔
 _____ الكَلَامُ: نتیجہ اور مفاد کی جانب پھیرنا۔
 _____ الذِّينَ: جمع کرنا۔
 تَحْصَلُ الشَّيْءُ: اکٹھا ہونا۔ ثابت ہونا۔
 _____ مِنَ الْمَسْئَلَةِ كَذَا: کسی مسئلہ سے دوسرا
 مسئلہ نکالا جانا۔
 الحِصَالُ: فا۔ کان سے نکال ہوئی خالص
 چاندی _____ مِنْ كَلِّ شَيْءٍ: بقیہ _____ عند
 الْمُحَاصِبِيْنَ: حاصل ضرب۔ مخزون۔ (مولدہ)
 اور اسی سے ہے ”حِصَالُ عَيْنِ المَاءِ“ پانی کی
 نیکی۔ ج حِوَانِجِ۔
 الحِصَلُ وَ الحِصَالَةُ: کلیان میں غلہ
 اٹھانے کے بعد جو کوزا کرکٹ باقی رہ جائے۔
 الحِصِيلُ: حاصل کیا ہوا مال۔ ایک قسم کی
 نباتات۔
 الحِصِيلَةُ: تحصیل کا اسم۔ حاصل کردہ بقیہ۔

حَضْبٌ وَلَا يَضْعُ "اس کے پاس کچھ نہیں۔
الْحَضْبُ وَالْحَضْبِيُّ وَالْحَضْبِيُّ
حَضْبٌ كَأَسْمٍ مَدْرٍ
الْحَضْبِيُّ دامن کوہ کا پتھر۔

الْحَضْبِيُّ دامن کوہ۔ جِ أَحْبَّةٌ وَ
حَضْبٌ بَسْتِ زَمِنٍ۔ اور عظیم ہیئت کی اصطلاح
میں اُس نقطہ کو کہتے ہیں جو اوج کے مقابل ہے۔
الْحَضْبُ وَالْحَضْبِيُّ رَسُوْتٌ۔

الْحَضْبِيَّةُ شَيْءٌ مَمْلُوكٌ۔ تم کہتے ہو۔
"أَخْرَجْتُ إِلَيْهِ حَضْبِيَّةً وَ بَضْبِيَّةً"
میں نے اپنی ساری ملکیت اس کے سامنے کر دی۔
الْحَضْبِيُّ ذُوْرِيٌّ۔ آگ۔

أَحْمَرُ حَضْبِيٌّ بَسْتٌ كَمَا رَسَخَ۔
حَضْبًا (ف) حَضْبًا۔ النَّازُ: جَلَانًا۔ حَضْبَاتٌ
النَّازُ جَلَانًا۔

إِحْتَضَبْتُ النَّازُ: جَلَانًا۔
الْمِحْضَبُ: آگ ہلانے کی کرملی۔
أَيْضٌ (حَضْبِيٌّ) بَسْتٌ سَفِيْدٌ۔

حَضْبٌ (ض) حَضْبًا وَ أَحْضَبَ النَّازُ:
ابن مہن ڈالنا۔
تَحَضَّبٌ: دشوار گزار قریب کا راستہ اختیار
کرنا۔

الْحَضْبُ وَالْحَضْبُ سَانِيٌّ۔
الْحَضْبُ وَالْحَضْبُ: مکان کی آواز۔ دامن
کوہ۔ جِ أَحْضَابُ۔

الْحَضْبُ وَالْحَضْبُ: لکڑی۔ ابن مہن۔
الْمِحْضَبُ: آگ ہلانے کی کرملی۔ گوشت
بھوننے کی کڑھالی۔

حَضْبُج (ن) حَضْبُجًا۔ النَّازُ: جَلَانًا۔
الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ: دُبَانًا
بِغَلَانٍ: بچھاڑنا

بِهَ الْارْحَضِ: بچک دینا۔
حَضْبُجُ الْكَلَامِ: کو تابی کرنا۔
إِحْتَضَبُجُ الرَّجُلِ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔

الْحَضْبُجُ: وہ شخص جس کی پیٹھ جھلی ہوئی اور
ہیٹ نکلا ہو۔
الْحَضْبُجُ: بھری ہوئی بڑی منگ جس کو ٹیک
لگاوی گئی ہو۔

الْمِحْضُجُ وَالْمِحْضُجُ: آگ ہلانے کی
کرملی۔ الْمِحْضُجُ: کپڑا دھونے کی موگری۔
إِمْرَأَةٌ مِحْضُجٌ: کشادہ پیٹ والی عورت۔

الْمِحْضُجُ: اونٹوں کے حوض میں باقی ماندہ گدلا
پانی۔
الْمِحْضُجُ: لاغر سرین اور بڑے شکم والا۔ بڑی
منگ۔ جِ حَضْبُجٍ۔ حَضْبُجٍ: بچو کا علم جنس
ہے۔

حَضْبُ (ن) حَضْبُوزًا وَ حَضْبَاةٌ۔ موجود ہونا۔
حَضْبَاةٌ شَرِيْمٌ مَقِيْمٌ ہونا۔
حَضْبُ (س) وَ حَضْبُ (ن) حَضْبُوزًا
الْمَجْلِسُ: حاضر ہونا۔ عَنِ الْمَكَانِ:
ختم ہونا۔ حَضْبُ الْاَمْرِ: دل میں گزرتا۔

الْمَوْتُ: موت کا وقت آنا۔ إِلَيْهِ: آنا۔ کما
جاتا ہے۔ "حَضْبَتْ الْأَمْرُ بِخَيْرٍ" یعنی میں نے
درست رائے کا خیال کیا۔ "وَ حَضْبَتْ
الصَّلَاةُ" نماز کا وقت آ گیا۔

حَضْبٌ: موت واقع ہونا۔ مَفْتٌ (مِحْضُوزٌ)
حَضْبَةٌ وَ حَضْبَةٌ وَ أَحْضَبَةٌ: حاضر کرنا۔ کما
جاتا ہے "أَحْضَبُ الشَّيْءِ" اس کے پاس چیز کو لایا۔
أَحْضَبُ الْفَرَسِ: تیز دوڑنا۔

حَاضِرَةٌ مَحَاضِرَةٌ وَ حَضَارًا۔ ساتھ دوڑنا۔
مقابلہ کرنا۔ جو جواب سمجھ میں آئے رہا۔
حَاضِرُ الْجَوَابِ: حاضر جواب ہونا۔

تَحَضَّرَ وَ احْتَضَّرَ۔ حاضر ہونا۔ تَحَضَّرَ وَ
إِحْتَضَّرَ الرَّجُلُ: حاضر کرنا۔ إِحْتَضَّرَ الْفَرَسُ:
دوڑنا۔ تَحَضَّرَ التَّيْدُوِيُّ: شہری عیسائیت۔
تَحَضَّرَةُ الْهَيْمُ: غم لاحق ہونا۔

أَحْضَبُ: قریب المرگ ہونا۔
إِسْتَحْضَرَ الشَّيْءَ: حاضر کرنا۔ حاضر ہونے کو
کہنا۔ الْفَرَسُ: دوڑنا۔

الْحَضْرُ وَالْحَضْرَاةُ وَالْحَاضِرَةُ۔ شرار اور
مقاتل مسکونہ۔ یہ التَّيْدُوِيُّ وَ التَّيْدَاوَةُ وَ التَّيْدَايَةُ کے
خلاف ہے۔ کما جاتا ہے "هَذَا مِنْ كَلَامِ
الْحَاضِرَةِ وَ لَمْ أَزِ التَّيْدَاوِيُّ لَفْظًا بِهَ وَلَا
عَزْفًا" یہ شر کے رہنے والوں کی گفتگو ہے
دہمات کے رہنے والوں کو نہیں دیکھا کہ انہوں
نے اس کا لفظ کیا ہوا اور نہ وہ اسے جانتے ہیں۔

الْحَضْرَاةُ وَ الْحَضْرَاةُ: شہری اقامت۔
الْحَضْرُ وَالْحَضْرَاةُ: موجودگی۔ پہلو۔ نزدیکی۔
مکان کے سامنے کا گھن۔

حضرت کا اطلاق ہر ایسے بڑے آدمی پر ہوتا ہے
جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہوں جیسے
الحضرة العالیہ تامر بکذا۔ جناب عالی فلاں
کام کا حکم دیتے ہیں اور کما جاتا ہے "کلمتہ
بحضرة فلان" میں نے فلاں کی موجودگی میں
اس سے گفتگو کی۔

الحضرة تیز دوڑنا۔ احضر الفرس کا اسم ہے۔
الحضرة والحضر۔ لوگوں کے کمانے کے
وقت کا انتظار کر کے حاضر ہونے والا۔

الحضرة: حاضر جواب۔ الحضرة: وہ شخص جو سفر کا
ارادہ نہ کرے یا سفر کی ملاحیت نہ رکھتا ہو۔
الحضرة والحضرة والحضرة۔ پہلو
نزدیکی۔ مکان کے سامنے کا گھن۔ کما جاتا ہے
"فلاں احسن الحضرة" جبکہ بھلائی کے ساتھ
حاضر ہو "و جمع الحضرة" یعنی وہ عمارت بنانا
چاہتا ہے۔ اہٹ چونہ گچ وغیرہ کر لیا ہے۔

الحضرة: سفید۔
الحضرة شہری۔
الحاضر۔ فاء شرکاً رہنے والا۔ جِ حَضْرُو
حَضَارٌ وَ حَضْوُورٌ وَ حَضْرَةٌ۔ الحاضر: بڑا
قیمہ (یعنی بچ ہے جیسے "حاج" ماجوں کے لئے کما
جاتا ہے)۔

الحاضرة۔ حاضر ہونے کی جگہ۔ دستاویز جِ
حَواضِرُ۔
الحضرة۔ لوگوں کی جماعت۔ فوج کا ہر اول۔
زخم کا مواد۔ کھجور خشک کرنے کی جگہ۔ جِ
حَضَارٌ وَ حَضْرٌ۔

الْمَحْضَرُ۔ حاضر ہونے کی جگہ۔ دستاویز جِ
مَحَاضِرُ۔ الْمَحْضَرُ: حاضر ہونے والے
لوگ۔ کما جاتا ہے "فلاں حسن الْمَحْضَرُ"
جبکہ غائب آدمی کا ذکر بھلائی سے کرے۔ "وَ كَانَ
ذَلِكَ بِمَحْضَرِ بْنِ فُلَانٍ" فلاں کی موجودگی
میں یہ ہوا۔

الْمَحْضُورُ۔ علم لمن مَحْضُورٌ: بہت آہٹ
والا اور وہ۔

المُخَضَّر والمُخَضَّر. مِنَ الخَيْلِ
وغيرها: جَمَدٌ وَرُؤْيَا جِ مَخَضَّرٌ.
المُخَضَّر. شَرِيٌّ. شَرِيٌّ أَسْنَى وَاللَّيْنُ
المُخَضَّر. قَرِيبُ الرِّجْلِ. كَتَبَ فِي "الْبَيْتِ
مُخَضَّرٌ لَفِظُ انَاءِ ك" دَوْدٌ كَلَّمَ بَسْتِ
آفَتِ بِاسْمِ اسْمِ بَرْتَنِ كُوْمِيَانُو.
خَضْرَبٌ. الخَيْلُ أَوْ الوَلْوَرُ: بِأَنَّهُ هُنَا يُضْرَبُ
بُتَانًا.
المُخَضَّر. بِمَرَاةٍ.
خَضْرَمٌ. فِي الكَلَامِ: عَرَابِيٌّ غَلَطِيٌّ كَرْنَا.
الشَّيْءُ: لَمَانَا _____ لِحَاءُ الشَّجَرِ:
جَمَالٌ أَمَارَتَا.
_____ القَوْمِ: كَمَا نُوْمِيَانُو كَرْنَا.
الخَضْرَمِيَّةُ: مُتَكَوِّنَةٌ كَلَّتَتْ.
حَضْرَمَتُ كِي جَانِبِ مَسْبُوبِ.
المُخَضَّر. بِمَعْنَى المُخَضَّرِ (دِيكِيَّةُ لَفْظِ
المُخَضَّرِ).
الخَضْرَمِيَّةُ. سَابِقُ.
خَضَلْتُ (س) خَضَلًا: الخَيْلُ: دَرَجَتُ
تَرَاكُ وَنَحْلُ كِي جَزَاكَ تَرَابٌ هُوَا.
خَضَنَ (ن) خَضَنًا وَخَضَانَةً وَخَضَنَ.
الصَّبِيُّ: كُوْدٌ فِي لِيْمَا. بِرُورِشِ كَرْنَا. سِيْنَةُ
لَكَتَا. خَضَنَهُ عَن كَذَا: عَلِيْمُهُ كَرْنَا. دُورُ كَرْنَا.
خَضَنَ (ن) خَضَنًا وَخَضَانَةً وَخَضَانًا وَ
خَضُونًا وَخَضَنَ. الطَّبِيْرُ يَخْضُنُ وَ عُلَى
بِيْتِيْنُهُ: أَمْرٌ سِيْنَا.
خَضَنْتُ (ك) خَضَانًا: المَرَأَةُ أَوْ الشَّافَاؤُ
الثَّقَاةُ: أَيْ كِي جَمْرَةٌ أَدْرَ أَيْ كِي بَرِيَّةٍ أَوْ
تَمْرِنِ وَدِي هُوَا. صَفَتُ (خَضُونُ)
أَخْضَنَ. الرِّجْلُ وَبِالرِّجْلِ: خَفَرْتُ كَرْنَا
أَخْضَنَ بِحَقِيْقَةٍ: جَنَ بَارَلِيْنَا.
الخَضْنُ: كُوْدَا تَمْرِنِ مَقْدَارُ جَمْرُوْدِيْنِ أَسْكِي. كَمَا
جَاةٌ بِ"أَعْظَاهُ خَضْنًا مِنَ التَّمْرِ" اسْمُ
اسْمِ كُوْدِيْمِكِرِ كَجَمْرِيْنِ وَدِي. كَسِي جَزَاكَ كَارَاهِ.
بِهَازُ كِي جَزَا. كَمَا جَاةٌ بِ"عَشَّشَ الطَّائِرُ فِي
جِصْنِ الخَيْلِ" بِرُندِي نِي هَازُ كِي جَزَا
كُوْمِيَانُو. جَا خَضَانًا وَخَضُونًا. الخَضْنُ
وَخَضَنَ: بِجَمْرُوْدِيْنِ.

المُخَضَّنَةُ. خَضَنَ الطَّائِرُ كَالسَّمْعِ.
الخَاضِنَةُ. بِجَزَا كُوْدِيْمِكِرِ كَرْنَا وَدِي. ج.
خَوَاضِنٌ. كَمَا جَاةٌ بِ"خَمَامَةٌ خَاضِنٌ وَ
خَمَامٌ خَوَاضِنٌ".
الخِضَانَةُ. وَدِي كَرِي. بِرُورِشِ.
الخِضَانُ. وَهُوَ عَمَلٌ جَسْمَانِيٌّ خَاضِيٌّ دُورِي
سِي بَرَاةً.
الخِضَانَةُ. بِهَالِ كِي مَانِدِي كَالِ كِي بَرْتَنِ.
المُخَضَّنُ. كُوْدُ.
خَضَا (ن) خَضَا: النَّازِ: كَرِيْلِي سِي هَلَاةً.
الخِضَانُ وَخِضَانَةٌ: أَيْ هَلَاةً كِي
كَرِيْلِي.
الخِضَانِي. مَلِي كِي بِنِي هُوَا كَالِ كِي.
خَضَا (ن) خَضَا: أَمْرٌ نَازِلٌ هُوَا.
(_____ خَضَا وَخَضُولًا) السَّمْعُ: سَتَا هُوَا
(خَضَا (ن) خَضَا) البَعِيْرُ: أَيْ كِي جَانِبِ كَيْلِ كُو
وَإِنَا) _____ وَأَخْضَلُ: الرَّجُلُ: مِمَّا سَا لَمَانَا (خَضَلُ
(ن) خَضَلًا وَخَضَلًا) الشَّيْءُ: جَمْرُوْنَا.
رَكْنَا _____ الخَيْلُ: جَاوَرِي كِي بِرِيَّةٍ سِي أَمَارَتَا. كَمَا
جَاةٌ بِ"خَضَلُ رَحْلُهُ" اسْمُ نِي أَتَامَتِ كِي
_____ الخَيْلُ: بِأَشْرَ كَرْنَا. لُوْبِي سِي جَزَا سِي
نَقَشَ كَرْنَا.
إِنْخَضَلُ أَمْرٌ _____ الثَّقَاةُ لِي سِيْنَاهَا: تَمْرِنِ
دُورِيْنَا _____ السَّمْعُ: سَتَا هُوَا. كَمَا جَاةٌ بِ
"الْأَسْعَارُ خَاضِلَةٌ وَفَنَخَضَلَةٌ بِمَآءِ سَتَاةً."
إِنْخَضَلُ: نِي سِي أَمْرٌ كَرْنَا. كَمَا جَاةٌ بِ
"إِنْخَضَلُ فَلَانَا وَرُزَّةً" اسْمُ نِي لَمَانَا سِي إِنْجَمْرُو
كَمَارِي كُو كَمَا _____ مِنَ التَّمْرِ شِيْنَا: كِي كَمَارِي
كُو كَمَا.
الخَيْلَةُ وَخَيْلِيْنِي: إِنْخَضَلُ وَرُزَّةً كَالِ
سِي.
الخَيْلِيْنِي. جَمْرُوْنَا.
الخَيْلِيْنِي. قِيْمَتُ كِي كِي.
الخَيْلِيْنِي. كَمَا سِي.
الخَيْلِيْنِي. مِمَّا سَا. دُورِي كِي جَمَاكِ. وَاحِدُ
(خَضَاةً)
الخَيْلِيْنِي. بِرُو.
الخَيْلِيْنِي. زَمْرُوْنَا ذِكْرُ اجْسَامِ.

الخَيْلَانُ. كَرْنَا.
الخَيْلِيْنِي. مِمَّا سَا لَمَانَا سِي إِنْجَمْرُوْنَا.
الخَيْلِيْنِي. زَمْرُوْنَا كِي بِرِيَّةٍ هُوَا.
الخَيْلِيْنِي وَخَيْلِيْنِي. أَمْرٌ كِي جَمْرُوْنَا
كِي جَمْرُوْنَا. جَمْرُوْنَا وَخَيْلِيْنِي. الخَيْلِيْنِي:
رِي سِي سِيْنِيْنِ (جَمْرُوْنَا)
الخَيْلِيْنِي وَخَيْلِيْنِي. كَرِيْلِي يَالُوْبَا جَمْرُوْنَا سِي
نَقَشَ كَرْنَا كِي لَمَانَا كِي هُوَا.
الخَيْلِيْنِي. مِمَّا سَا لَمَانَا سِي إِنْجَمْرُوْنَا: بِأَشْرَ كَرْنَا
هُوَ جَمْرُوْنَا. سِيْفُ خَيْلِيْنِي. تَمْرِنِ هُوَا كُوْنَا.
خَيْلِيْنِي (ن) خَيْلِيْنِي. الأَرْضُ بِه: بِجَمْرُوْنَا.
_____ بِه عَن كَذَا: دَفْعُ كَرْنَا. هَلَاةً. جَمْرُوْنَا.
_____ بِالشَّيْءِ: بِجَمْرُوْنَا.
الخَيْلِيْنِي. بِصَوْرَتِ بِسْتِ تَمْرِنِ.
الخَيْلِيْنِي. بِرْتَنِ كَالِ بِرِيْنِي. كَمَا جَاةٌ بِ"خَيْلِيْنِي
مِن تَمْرِنِ" بِرِيْنِي بِرْتَنِي كِي لَمَانَا جَمْرُوْنَا.
الخَيْلِيْنِي. مِمَّا سَا لَمَانَا سِي إِنْجَمْرُوْنَا. كَمَا جَاةٌ بِ
"هُوَ خَيْلِيْنِي" وَدِي كَرْنَا. هُوَا بِطِنِي لَمَانَا تَمْرِنِ
هِي.
خَيْلِيْنِي (س) خَيْلِيْنِي وَخَيْلِيْنِي وَخَيْلِيْنِي
كَرِيْلِي هِي. صَفَتُ (خَيْلِيْنِي) كَمَا جَاةٌ بِ"هُوَ
خَيْلِيْنِي" وَهُوَ كَمْرُوْنَا سِي وَطَبِ وَبِاسْمِ لَمَانَا
وَإِلَاةً.
خَيْلِيْنِي. كَرِيْلِي لَمَانَا.
خَيْلِيْنِي وَخَيْلِيْنِي. المَكَانُ: بِسْتِ كَرِيْلِي
وَإِلَاةً جَمْرُوْنَا. صَفَتُ (خَيْلِيْنِي) مَوْنَتُ
(خَيْلِيْنِي)
خَيْلِيْنِي. بِه وَعَلِيْهِ: جَمْرُوْنَا. كَمَا جَاةٌ بِ"كَمَا
جَاةٌ بِ"خَيْلِيْنِي حِيْلُهُ" اسْمُ نِي سِي كِي وَدِي
وَإِمَارَتُ كِي. "وَخَيْلِيْنِي عَلَيْهِ بِخَيْرٍ" بِرْتَنِي وَاسْمُ
كِي بِاسْمِ لَمَانَا كُوْنَا.
أَخْطَبُ وَاسْمُ خَيْلِيْنِي. الكَرْمُ: أَمْرٌ كِي تَمْرِنِ
سِي شَمْعِيْنِ تَرَا شِيْنِي كَالِ وَتَمْرِنِ.
الخَيْلِيْنِي. أَمْرٌ مِمَّا سَا لَمَانَا سِي إِنْجَمْرُوْنَا. أَيْ كَرْنَا
كُو خَيْلِيْنِي كَرْنَا.
الخَيْلِيْنِي. مَوْنَتُ خَيْلِيْنِي وَ (الأَخْطَبُ)
مَوْنَتُ خَيْلِيْنِي. جَمْرُوْنَا: بِسْتِ وَدِي.
الخَيْلِيْنِي. كَرِيْلِي بِرْتَنِي وَدِي. كَرِيْلِي بَارَا.

ہوتا۔ الحِظَل والحِظَال والحِظُول۔ کل کی وجہ سے اپنے اہل و عیال پر تنگی کرنے والا۔ حِظَال (ن) حِظُول (س) حِظَال۔ آہستہ چلنا۔ حِظِي (س) حِظُولَة وَحِظُولَة وَحِظُولَة بِالرَّزَقِ: حصہ پانا۔ (و) احتضنی رتبہ والا ہوتا۔ نصیب والا ہوتا۔ أَحْظَاءُ: صاحب رتبہ ہانا۔ أَحْظَاءُ بِالْمَالِ: مال کا حصہ دینا۔ أَحْظَاءُ عَلَى فُلَانٍ: فنیلت دینا۔ الحِظُولُ۔ حصہ۔ الحِظِي۔ صاحب رتبہ۔ الحِظُولَةُ: چھوٹا تیر۔ درخت کی جڑ کی شاخ جو ابھی سخت نہ ہوئی ہو۔ حِظَالٌ وَحِظُولَاتٌ۔ الحِظُولَةُ: حصہ۔ مرتبہ۔ حِظَالٌ وَحِظُولَاتٌ۔ الحِظُولَةُ وَالحِظُولَةُ: حصہ۔ مرتبہ۔ الحِظِي: وہ شخص جس سے لوگ محبت کریں اور اس کے مرتبہ کو بلند کریں۔ الحِظِيَّةُ: الحِظِي کا سونٹ۔ امیرا بادشاہ کی پیاری اور عزیز بی بی حِظَالِیَا۔ الحِظِيَّةُ: آہستہ چال۔ کہا جاتا ہے "مشی الحِظِيَّةُ" وہ آہستہ چال چلا۔ الحِظِيَّةُ: بے پھل کا پھوٹا تیر۔ الحِظِي: جو۔ واحد حِظَالَةٌ۔ الحِظِي: حصہ۔ حِظَالٌ وَحِظُولَاتٌ۔ حِظْف (ن) حِظْفَا وَحِظْفَالًا: الشَّيْءُ: چھلکا آتارنا۔ اللَّحِيَّةُ: موٹے یا کترے۔ الْوَجْهَةُ: بال دور کرنا۔ حِظْف (ن) حِظْفَالٌ: القَوْمُ الرَّجُلُ وَبِهِ وَحَوْلَهُ: گھیرنا۔ حِظْفَةٌ: بکڈا۔ احاطہ کر لینا۔ حِظْفَةٌ: الحاجة: ضرورت لاحق ہونا۔ حِظْفَتُ (ض) حِظْفَتُمَا: الشَّجَرَةُ أَوْ الْحَيَّةُ: سرسراہٹ ہونا۔ حِظْفَتِ الْأَرْضِ حِظْفُولًا: تنگ ہونا۔ سمعہ: ہیرا ہونا۔ اللَّحِيَّةُ: پر آگندہ ہونا۔ حِظْفُ الرَّجُلِ: تیز نظریہ لگانے والا ہونا۔ أَحْظَفَ أَحْظَفًا: راتہ۔ مدت تک تیل نہ لگانا۔ الرَّجُلُ: بُرْمَالِي سے یاد کرنا۔	کبھی حصہ شریکے بھی بولا جاتا ہے۔ دولت مندی دیکر بختیج حِظُولٌ حِظَالٌ وَحِظُولًا۔ حِظَل (ن) حِظُولَاتٌ وَحِظَل (س) حِظَلَا۔ الرَّجُلُ: موٹا ہونا۔ پست قدم اور بڑے پیٹ والا ہونا۔ صفت (حِظَل) مَوْنَسٌ حِظَلِيَّةٌ۔ الحِظَلُ: بڑے پیٹ والا پست قدم تخت آہڈ۔ بِخْلِ: تنگ خو۔ حِظُولَةٌ (ض) حِظُولَاتٌ الشَّيْءُ وَحِظُولَاتٌ عَلَيْهِ الشَّيْءُ منع کرنا۔ روکنا۔ الشَّيْءُ: مخلوق کرنا۔ (اس وجہ سے کہ گویا غیر سے روک دیا۔) المَوَاشِي: ہاتھ میں بند کرنا۔ (و) احتضنی اپنے لیے ہاتھ پانا۔ احتضنی بہ۔ أَحْظَرُ: دوسرے کے لیے ہاتھ پانا۔ حِظَرُ: بختیج حِظَرُ: تشدید مبالغہ کیلئے ہے۔ الحِظَرُ: درخت کی شاخ کہ جس سے ہاتھ پائیں۔ ترکانا۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَ فِي الحِظَرِ الرُّطْبُ" یعنی وہ ایسی چیز میں پھنس گیا جس کی اسے طاقت نہیں۔ "وَأَوْقَدَ فِي الحِظَرِ الرُّطْبُ" اس نے پھل خوری کی۔ "وَجَاءَ بِالْحِظَرِ الرُّطْبُ" وہ بہت مال لایا یا بہت جمعوت بولا۔ الحِظِيَّةُ: حِظَالٌ وَحِظُولَاتٌ (الحِظَالُ وَالحِظَالُ) ہر وہ چیز جو تمہارے اور دوسرے کے درمیان میں حائل ہو۔ ہاتھ۔ "وَأِنَّهُ لَنَكِيدُ الحِظِيَّةُ" وہ خیل و بے فیض ہے۔ حِظِيَّةُ الْقَدَسِ: جنت۔ الحِظُولُ: روکا ہوا۔ حرام۔ ناجائز۔ کہا جاتا ہے "الصُّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الحِظُولَاتُ"۔ حِظُولُ: القَوْمُ: ختیج سے تانت چڑھانا۔ الحِجَلُ: مضبوط بننا۔ السَّقَاةُ: بھرتا۔ حِظُولُ: بھرتا۔ حِظَل (ن) (ض) حِظَلَاتٌ وَحِظَلَاتٌ وَحِظَلَاتٌ: علیہ: حرکت اور تعریف سے روکنا۔ (حِظَلَاتٌ) المشي: فہم فہم کر چلنا اور کہا جاتا ہے "ہو یحِظَل حِظَلَاتًا" وہ غصناک کی چال چلتا ہے۔ حِظَل (س) حِظَلَاتٌ: البعير: بہت اندر این کہا۔ صفت حِظَلُ: جمع حِظَالِي۔ أَحْظَلُ: المَكَانُ: بہت اندر این والی جگہ	الحِظُولَةُ: کڑی کا کٹھا۔ الحِظَالَةُ: الحِظَالُ کا موٹ۔ کڑی چنے والی۔ المِحْطَبُ: بنیا۔ حِظَالَةُ الشَّيْءِ: آرتنا۔ الرَّجُلُ: چل رہی کرنا۔ حِظُول (ن) حِظُولَاتٌ: الحَارِيَّةُ: جمع کرنا۔ القَوْمُ: تانت چڑھانا۔ حِظُولُ: زمین پر گر پڑنا۔ سيف (حِظُولَةٌ) فُشِيْرِيَا۔ الحِظَلُ: بھرتا۔ حِظَالٌ وَحِظُولَاتٌ۔ حِظُولَةُ (ض) حِظُولَاتٌ حِظُولَةُ تَوْرَتَا۔ حِظُول (س) حِظُولَاتٌ: بڑی عمرو والا ہونا۔ حِظُولٌ وَالحِظُولُ: ٹوٹا۔ کہا جاتا ہے "نَحْظُمُ الرُّجُلُ حِظُولًا" وہ غصہ سے چور ہو گیا۔ "وَالحِظُولُ النَّاسُ عَلَيْهِ" لوگوں نے اس پر بھیڑ کی۔ الحِظُولُ: بے رحم چرواہا۔ (و) الحِظُولُ: بہت کھانے۔ سب کچھ چٹ کر جانے والا۔ الحِظُولَةُ وَالحِظُولَاتُ وَالحِظُولُ: سوکھی چیز کے ٹکڑے حِظُولَاتُ الدُّنْيَا: دنیاوی ساز و سامان۔ حِظُولَاتُ النَّبِيصِ: انڈے کا چھلکا۔ الحِظَالُ وَالحِظُولُ وَالحِظُولُ: شیر۔ کہا جاتا ہے "رَبِيعٌ حِظُولٌ" بہت تیز ہوا۔ الحِظُولُ: بھم کرنے والی دو (و) الحِظُولُ وَالحِظُولَاتُ وَالحِظُولَةُ: سخت سال۔ الحِظُولَةُ: تیز آگ۔ روزخ۔ بہت اونٹ و بکریاں۔ الحِظُولُ: کعبہ کے کنارے کی دیوار۔ وہ جگہ جو رکن اور زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے۔ الحِظُولَاتُ: زرہیں جو ایک شخص حِظُولَةُ نامی کی جانب منسوب ہیں۔ اور بقول بعض گواروں کو توڑ دینے والی زرہیں۔ اور بعضوں کے نزدیک ایسی زرہیں جو بیماری اور چوڑی ہوں۔ حِظَل (س) حِظَالٌ وَحِظُولٌ وَحِظُولَاتٌ: نصیب والا ہونا۔ صفت (حِظَل) حِظُولٌ وَحِظُولَاتٌ وَحِظُولَاتٌ: حصہ خیر و فضل۔
---	--	--

حفظش

حفظ

حفل

۱۶۳

حافظۃ زانویرا نویشنا اور قریب ہوتا۔

تَحْفَظُوْا اِحْتَفَظُوْا۔ زانویرا یا سرین کے بل بیٹھنا۔
 کرنے کیلئے آواز ہوتا۔ کہا جاتا ہے۔ "اِحْتَفَظُوْا
 مَشِيْهَةً" اس نے چلنے میں کوشش کی۔

الْحَفَظُ۔ مدت۔ کہا جاتا ہے "جَعَلْتُ بِنِيْ
 يَتْنِكَ حَفَظًا" میں نے اپنے اور تمہارے
 درمیان مدت مقرر کی۔

الْحَفَظُ۔ مِنَ الْقَيْسِيِّ تَمْرٌ كَوَسْمٌ تَمْرٌ
 چھینکنے والی کمان۔

حَفَسٌ (ض) حَفَسًا۔ کھانا۔

تَحْفَيْسٌ۔ بستر تھلانا۔

الْحَفَيْسُ وَالْحَفَيْسُ۔ موتا جس سے کسی چیز
 کی امید نہ ہو۔ بے وجہ غصہ اور راضی ہونے
 والا۔ الْحَفَيْسُ: غھبٹناک۔

حَفَسَةٌ (ض) حَفَسًا۔ چھلکا آنا۔

حَفَسَ السَّيْلُ الْوَادِي: بھرنا۔ الْمَطَرُ
 الْأَرْضَ: روئیدگی ظاہر کرنا۔ فَلَانًا: دھکا
 دینا۔

السَّيْلُ: ایک جگہ میں سارا پانی جمع ہونا۔

القَوْمُ عَلَيْهِ: اکٹھا ہونا۔ حَفَسَ فِي
 الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔ الْفَرْشُ: بار بار
 دوڑنا اور ہر مرتبہ اچھی طرح سے دوڑنا۔

حَفَسَ (س) حَفَسًا۔ السَّحَابَةُ: یکبارگی
 زور کی پوچھا ہر سارے کرک جانا۔

حَفَسٌ وَتَحْفَسُ۔ الرَّجُلُ: جمونہڑے میں
 رہنا۔

الْحَافِظَةُ۔ پانی پینے کی جگہ۔ حِجَّ حَافِظَاتٍ وَ
 حَوَافِظِشِ۔

الْحَفْشُ۔ ٹوکری۔ جمونہڑا۔ بالوں کا بنا ہوا
 خیمہ۔ کوہان۔ بوسیدہ چیز۔ حِجَّ أَحْفَاشٍ وَحَفَاشٍ۔
 أَحْفَاشُ الْبَيْتِ: گھر کی معمولی چیزیں۔ أَحْفَاشُ
 الْأَرْضِ: سیسی۔ جنگلی چوہا۔ گوہ وغیرہ۔ الْحَفِيشُ:
 اندام نعلی۔

حَفَضَ (ض) حَفَضًا۔ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔

الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ: ڈال دینا۔ كَرَانَةً۔

الْحَفَاضَةُ: جمع کی ہوئی چیز۔

الْحَفْصُ۔ بھڑے کا تھمبلا۔ چھوٹا گھر۔ شِيرٌ كَا
 بَحْرٍ۔ حِجَّ أَحْفَاصٍ وَحَفْصٍ۔

الْحَفْصُ۔ بیرونیوں کی گھمٹی۔

الْمُحَفَّصَةُ۔ بھڑے کا تھمبلا۔

الْحَفْصَةُ۔ بَجْرٌ۔ (الْحَفْصَةُ وَالْمُحَفَّصَةُ) ایک
 قسم کا گدھ۔ (الْمُحَفَّصَةُ) مرنی۔

حَفَضَ (ن) حَفَضًا۔ الْعَوْدُ: موڑنا۔ وَالْوَ
 حَفَضُ الشَّيْءِ: ہاتھ سے گرانے۔

الْأَرْضُ: خشک کرنا۔ الْقَوْمُ: اپنے پیچھے
 چھوڑ دینا۔ اللَّهُ عَنهُ: تخفیف کرنا۔

الْحَفْضُ۔ گھر کا سامان جو بار کرنے کے لیے تیار

کیا گیا ہو۔ گھر کا سامان اٹھانے والا۔ اُونْتُ۔ بورا

جس میں قوم کا سامان ہو۔ خیمہ کا ستون۔ بالوں کا

خیمہ۔ کزور اُونْتُ۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَحَفْضٌ

عِلْمٌ" وہ کم علم ہے (اس قول میں ظلم کو حَفْضٌ

سے قلت کی بنا پر تشبیہ دی گئی ہے) اور کہا جاتا

ہے۔ "بِعَمِّ حَفْضِ الْعِلْمِ هَذَا" یہ علم کا جاننے والا

اجتہاد ہے۔ حِجَّ أَحْفَاصٍ وَحَفَاصٍ۔

حَفِظَ (س) حَفِظًا۔ الشَّيْءُ: ضائع ہونے سے

بچانا۔ خراب و خستہ ہونے سے بچانا۔

الْكِتَابُ: زبانی یاد کرنا۔ السُّورُ:

چھپانا۔

الْعَمَالُ: خالصت کرنا۔ نگہبانی کرنا۔

حَفِظَةَ الْكِتَابِ: یاد کرنا۔

حَافِظَةُ حَفَاطًا وَحَافِظَةٌ۔ عَلِيٌّ الْأَمْرِ:

مددگار کرنا۔ نگہبانی کرنا۔ عَنْهُ: مددگار

کرنا۔ بٹانا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَلَّذُو حَفَاطٌ وَذُو

مَحَافِظَةٍ" اس شخص کے حق میں جس کے اندر

خودداری ہو۔

أَحْفَظُهُ: غصہ دلانا۔

إِحْتَفَظَ: غھبٹناک ہونا۔ بھڑے یاد کرنا۔

الشَّيْءُ وَبِهِ لِنَفْسِهِ: اپنے لیے خاص کرنا۔

تَحْفَظَ: عَنْهُ وَهَنَ: بچنا۔ بھڑے بہ کتابت:

تھوڑا تھوڑا یاد کرنا۔

إِسْتَحْفَظَهُ: مَالًا أَوْ سِوَاهُ: محفوظ رکھنے کو کرنا۔

الْحَفِظُ: بھڑے۔ یاد۔ بوسیدہ۔

الْمُحَفِظَةُ: نگہبانی۔ تعویذ۔ جس کو بچنے کے گلے

وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ حِجَّ حَفَاطٍ۔ اهل

الْحَفَاطِ: حمار کی نگہبانی کرنے والے۔

الْمُحَفِظَةُ وَالْحَفِظَةُ: قابلِ خالصت چیز کے

لیے غصب و محبت۔

الْحَافِظُ۔ نا۔ کسی چیز پر مقرر۔ الطریق

الْحَافِظُ: واضح سیدھا راستہ جو ختم نہ ہو۔ کہا

جاتا ہے "رَجُلٌ حَافِظُ الْعَيْنِ" مرد بیدار چشم

جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ حِجَّ حَفَاطٍ وَحَفِظَةٍ وَ

حَافِظُونَ۔

الْحَافِظُ وَالْحَفِظَةُ۔ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: نیک

بدری لکھنے والا فرشتہ۔ الْحَفِظُ: محفوظ۔ بِنِزَالِ

تَعَالَى: کے اسمائے حسی میں سے ہے۔

الْحَافِظَةُ۔ الْحَافِظُ كَالْمَوْثِقِ: یادداشت کی

قوت۔

الْمُحَفِظَةُ۔ غصہ دلانے والا معاملہ۔ حِجَّ

مُحَفِظَاتٍ۔ الْمُحَفِظَاتُ۔ مہینیں۔

حَفَلٌ (ض) حَفَلًا وَحَفْلًا لَوَّ حَفْلًا لَوَّ الْعَمَاءُ:

کثرت سے جمع ہونا۔ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا

الدَّمْعُ: بہت ہونا۔ الْوَادِي

بِالسَّيْلِ: لبا لب بھرنا۔ السَّمَاءُ: بہت

برساتا۔ الشَّيْءُ: مہینل کرنا۔ کہا جاتا ہے

"مَا حَفَلَهُ وَمَا حَفَلُ بِهِ" اس نے اس کی پروا

نہیں کی۔

حَفَلَهُ: اچھی طرح جمع کرنا۔ زینت دینا۔

الشَّيْءُ: مہینل کرنا۔ النَّاقَةُ: تھن میں

دودھ جمع ہونے کے لیے چھوڑ دینا۔

تَحْفَلُ۔ اللَّهْلِيُّ: اکٹھا ہونا۔ فَلَانٌ:

آراستہ ہونا۔ الْمَجْلِسُ: مجلس کا بھر

جانا۔

إِحْتَفَلَ الْقَوْمُ: جمع ہونا۔ الْمَجْلِسُ

بِالنَّاسِ: بھرنا۔ الْوَادِي بِالسَّيْلِ: لبا

لب بھرنا۔ الطَّرِيقُ: واضح ہونا۔

الشَّيْءُ: روشن ہونا۔ بِالْأَمْرِ: اچھی طرح

انتظام کرنا۔ فِي الْأَمْرِ: مہاندہ کرنا۔ کہا جاتا

ہے "مَا احْتَفَلَ بِهِ" اس نے اس کی پروا نہیں

کی۔

الْحَافِلُ۔ نا۔ حَضْرَعٌ حَافِلٌ: بھرا ہوا تھن۔

وَادٍ حَافِلٌ: سیلاب سے بھری ہوئی وادی۔

جَمْعٌ حَافِلٌ: بڑی جماعت۔ نَاقَةٌ أَوْ شَاةٌ

حَافِلٌ: بہت دودھ والی اونٹنی یا بکری۔ حِجَّ حَفَلٌ

وَحَوَافِلِ۔

<p>الرجل: وسط سر یا موڑھے کے گڑھے پر مارنا۔ الطریق: وسط راستہ چلنا۔</p>	<p>الْحَفْنَدُ - مالک مال جو مال کا بستر منتظم ہو۔ الحفینس سے جایا بعد زبان عورت۔</p>	<p>الْحَاظِلَةُ - الحَاظِلُ كَامُؤَنَتٌ - ذَا حَاظِلَةٍ هِيَ بَمَرَاكُمُ سُوْفِي حَاظِلَةٌ - بَمَرَا هُوَ اَبَاؤُا ر - الحَفْلُ - م - جماعت - کہا جاتا ہے "عندہ حَفْلٌ مِّنَ النَّاسِ" اس کے پاس لوگوں کی جماعت ہے۔ جمع حَفْلٌ: بڑی جماعت۔</p>
<p>حَقٌّ (ض) حَقًّا - عَلِيهِ اِنْ يَفْعَلُ كَذَا: وَاِجِب ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَقٌّ لَّكَ اِنْ تَفَعَّلَ كَذَا" و حَقَّقْتُ اَنْ تَفَعَّلَ كَذَا" یعنی اس کا کرنا تمہارے لائق ہے اور تم اس کے کرنے کے لائق ہو۔</p>	<p>حَفَا (ن) حَفْوًا - فَلَانًا: رِيًا - حَفَاةٌ مِّن الشَّيْءِ: رَوَاكُنَا - مَنَعُ كَرِيًا - حَفَاةُ اللّٰهِ بِهٖ: عَزَّتْ رِيًا - حَفَا النَّبِيُّ: اَهْمَتْ اَهْمَةً بَادِلُ كِے اطْرَافِ مِّن چمکنا۔ شاربہ: خوب اچھی طرح موڑنا۔</p>	<p>الحَفِيْلُ - مِت - جیسے جمع "حَفِيْلٌ" مِت جماعت "مَكَانٌ حَفِيْلٌ" بھری ہوئی جگہ "رَجُلٌ حَفِيْلٌ" ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا۔ الحَفْوَلُ - خِرْمُ عَوْرَتِ عَوْرَتِ - ج حَفَاثِلُ - الحَفَالُ - بڑی جماعت - جمع شدہ مِت دودھ - رَدِي كَبُوْر -</p>
<p>حَقٌّ (ن ض) حَقًّا وَ حَقْفَةً - اَلَا مَرُ: ثَابِت وَ وَاِجِب ہونا۔ الحَاظِلَةُ: الحَاظِلَةُ: مِت پش آنا۔ حَقٌّ (س) حَقَّقًا: الفَرُشُ: دوڑنے میں سے آگلی ٹانگوں کی جگہ پھیلے پاؤں رکھنا۔ مِت (أَحَقُّ) حَقَّقَةً: تَاكِيْد كَرِيًا - وَاِجِب كَرِيًا - حَقَّقِ القَوْلِ اَوْ الظَّنَّ: تَعْدِيْق كَرِيًا -</p>	<p>حَفِي (س) حَقْفًا: زِيَادَةً جَلَّةً سِے پاؤں گھستا۔ نچکے پاؤں چلنا۔ مِت (حَفِي وَ حَاظِلٌ) ج حَقْفَاةُ الفَرُشُ: گھسے ہوئے کھروالا ہونا)۔ جَفَاةٌ وَ حَقْوَاةٌ وَ حَقْفَاةٌ وَ تَحَقْفَاةٌ وَ اِحْتَفِي بِهٖ: عَزَّتْ وَ اَكْرَامُ كَرِيًا مِّن مَّبَالِغِ كَرِيًا - كِسِي كِے ساتھ خوشی ظاہر کرنے میں مبالغہ کرنا۔ حَفِي: عِنهٖ: حَالَت مِت پوچھنا۔</p>	<p>الحَفَالَةُ - ہر گھٹیا چیز۔ فرودیہ لوگ۔ حَفَالَةُ الطَّعَامِ - کھانے میں سے جو نکلے اور پکینگ دیا جائے حَفَالَةُ اللَّيْنِ: بھگام۔ الحَفْلَةُ - اِسْمُ المَرْءِةِ - اور کہا جاتا ہے "اِعْزَد لِلَا مَرُ حَفْلَتِهٖ" اس نے معاملہ میں کوشش کی۔ وَجَاءَ وَ اِحْتَفَلِيْہِمُ وَ اِحْتَفَلِيْہِمُ" وہ سب کے سب آئے۔</p>
<p>حَاظِلَةٌ مَّحَاظِلَةٌ وَ حَقْفَاةٌ - اَلَا مَرُ: جَمْعُا كَرِيًا - اِسْمٌ مِّن دَارِ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ کہا جاتا ہے "اِنَّ لَكَ كَذَا وَ كَذَا" اَلَا اِحْتَفَلِہٖ اَحَدٌ" یعنی اس کیلئے ایسا اور ایسا ہے کوئی اس بارے میں اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔</p>	<p>حَاظِلَةُ مَّحَاظِلَةٌ: مَنَعُو كَرِيًا مِّن جَمْعُا كَرِيًا - اَحْفِي اِحْفَاةً: گھسے ہوئے کھروالے جانور کا نالک ہونا۔ الشُّوَانُ: بار بار دہرانا۔ ہ: اصرار کرنا۔ خَبْرِي تَنْقِيْشٍ پَرَا اِجْتِيَاةً كَرِيًا اِنِّہٖ فِی الوَصِيَّةِ: مَبَالِغِ كَرِيًا۔ بِهٖ: حَسِبُ لَکَا شَارِبِہٖ: کھڑے میں مبالغہ کرنا۔</p>	<p>الحَفَلِي: عام دعوت۔ المَحْفِلُ - مَجْلِسُ ج مَحَاظِلِ (وَ المَحْتَفِلُ) جمع ہونے کی جگہ۔ مَحْتَفِلٌ اَلَا مَرُ: مَعَالِمُ کَابِرَا حَسَہٗ۔</p>
<p>أَحَقُّ - جِن كَرِيًا أَحَقُّہٗ: جِن مِّن مَّالِ اَنَا أَحَقُّ اَلَا مَرُ: ضُرُوْرِي وَ وَاِجِب مَہْرَا۔ كَمَا جَا تَا ہِے "أَحَقُّ عَلَيْهِ القَضَاءُ" یعنی تمہارا اس کے ذمہ وَاِجِب كَرِيًا - اِحْقِ الرُّمِيَةَ: تَبْرَا اِنْدَا زِي كِے وَ قَت ہن بار ڈالنا۔</p>	<p>تَحَاظِلَةُ اَلَا مَرُ السُّلْطَانِ: فِیْلہٗ كِلِيْے جَا تَا۔ اِحْتَفِي: نچکے پاؤں چلنا۔ جَوَا اَتَا رَا البَقْلُ: چھوٹی ہونے کی وجہ سے گلہوں سے اَكْبَرُا القَوْمِ المَرْعٰی: چر اگاہ میں کچھ نہ چھوڑنا۔</p>	<p>حَفْلٌ حَفْلَجَةٌ: چلنے میں بدن ہلانا۔ الحَفَالِيحُ: وہ شخص جو چلنے میں پاؤں کے اگلے حصہ کو قریب اور اڑیوں کو دور رکھے۔ الحَفْلَجُ - چھوٹا اونٹ۔ جمع حَفَالِيحُ - الحَفْلَجُ: یعنی حَفَالِيحُ۔ الحَفْلِيحُ پست تہ۔ الحَفْلَقُ: کمزور۔ بیوقوف۔</p>
<p>أَحَقُّ - جِن كَرِيًا أَحَقُّہٗ: جِن مِّن مَّالِ اَنَا أَحَقُّ اَلَا مَرُ: ضُرُوْرِي وَ وَاِجِب مَہْرَا۔ كَمَا جَا تَا ہِے "أَحَقُّ عَلَيْهِ القَضَاءُ" یعنی تمہارا اس کے ذمہ وَاِجِب كَرِيًا - اِحْقِ الرُّمِيَةَ: تَبْرَا اِنْدَا زِي كِے وَ قَت ہن بار ڈالنا۔</p>	<p>تَحَاظِلَةُ اَلَا مَرُ السُّلْطَانِ: فِیْلہٗ كِلِيْے جَا تَا۔ اِحْتَفِي: نچکے پاؤں چلنا۔ جَوَا اَتَا رَا البَقْلُ: چھوٹی ہونے کی وجہ سے گلہوں سے اَكْبَرُا القَوْمِ المَرْعٰی: چر اگاہ میں کچھ نہ چھوڑنا۔</p>	<p>حَقَّنَ (ن) حَقْنًا: الشَّيْءُ: لِب مَبْرَلِيَا لِب مَبْرُوِيَا۔ اِحْتَفَنَ - الشَّجَرَةُ: بَرُ سِے اَكْبَرُا - الشَّيْءِ لِنَفْسِہٖ: لِيَا _____ مِّن الشَّيْءِ: مِت لِيَا _____ الرَّجُلُ: دُونُوں ہاتھ زانو کے نیچے ڈال کر اُتَاہَا۔</p>
<p>تَحَقَّقُ - الخَبْرُ: ثَابِت ہونا۔ الرَّجُلُ اَلَا مَرُ: یَقِيْنُ كَرِيًا۔ تَحَاظِلًا بِاِہِمُ جَمْعُا تَا وَ فِیْلہٗ كِے لِيے جَا تَا۔ اِنْحَقُّ - الرِّبَاظُ: بِنْدہ جَا تَا۔</p>	<p>اِسْتَحْفِي - ہ عن كَذَا: كِسِي مَعْضُ سِے كِسِي جِز كِے متعلق مبالغہ سے دریافت کرنا۔ الحَفَاةُ - كَہرِا پاؤں کی کھسائی۔ الحَقْفَاةُ وَ الخَفْوَةُ وَ الحَفِيَّةُ - مَعْنَى الحَقْفَاةِ - الحَفِيَّةُ: كِسِي جِز كِے متعلق پوری طرح علم رکھنے والا۔ عَزَّتْ وَ اَكْرَامُ وَ اَنْظَا وَ خُشِي مِّن مَّبَالِغِ كَرِيًا وَ اَلَا: كِسِي مَعْضُ كِے حَالَات كِے متعلق مِت سَوَال كَرِيًا وَ اَلَا - سَوَال كَرِيًا مِّن مِت اصرار كَرِيًا وَ اَلَا ج حَفْوَاةً۔</p>	<p>حَقَّنَ (ن) حَقْنًا: الشَّيْءُ: لِب مَبْرَلِيَا لِب مَبْرُوِيَا۔ اِحْتَفَنَ - الشَّجَرَةُ: بَرُ سِے اَكْبَرُا - الشَّيْءِ لِنَفْسِہٖ: لِيَا _____ مِّن الشَّيْءِ: مِت لِيَا _____ الرَّجُلُ: دُونُوں ہاتھ زانو کے نیچے ڈال کر اُتَاہَا۔</p>
<p>اِحْتَقُّ - الفَرُشُ: دِلا ہونا۔ اِحْتَقَّتْ الطَّلَعَةُ بِهٖ: فَوْرَا اَمَارُا اَلَا - اِحْتَقُّ القَوْمُ: ہر ایک کا یہ کہنا کہ حق میرے پاس ہے۔</p>	<p>اِسْتَحْفِي - ہ عن كَذَا: كِسِي مَعْضُ سِے كِسِي جِز كِے متعلق مبالغہ سے دریافت کرنا۔ الحَقْفَاةُ - كَہرِا پاؤں کی کھسائی۔ الحَقْفَاةُ وَ الخَفْوَةُ وَ الحَفِيَّةُ - مَعْنَى الحَقْفَاةِ - الحَفِيَّةُ: كِسِي جِز كِے متعلق پوری طرح علم رکھنے والا۔ عَزَّتْ وَ اَكْرَامُ وَ اَنْظَا وَ خُشِي مِّن مَّبَالِغِ كَرِيًا وَ اَلَا: كِسِي مَعْضُ كِے حَالَات كِے متعلق مِت سَوَال كَرِيًا وَ اَلَا - سَوَال كَرِيًا مِّن مِت اصرار كَرِيًا وَ اَلَا ج حَفْوَاةً۔</p>	<p>حَقَّنَ (ن) حَقْنًا: الشَّيْءُ: لِب مَبْرَلِيَا لِب مَبْرُوِيَا۔ اِحْتَفَنَ - الشَّجَرَةُ: بَرُ سِے اَكْبَرُا - الشَّيْءِ لِنَفْسِہٖ: لِيَا _____ مِّن الشَّيْءِ: مِت لِيَا _____ الرَّجُلُ: دُونُوں ہاتھ زانو کے نیچے ڈال کر اُتَاہَا۔</p>
<p>النَّاقَةُ: مَوْنِي ہونا۔ كَمَا جَا تَا ہِے "اِحْتَقَّةُ اَلَا مَرُ: یعنی اسے مَرُ كَرِيَا اور اس پر نچل ڈالنا۔ اِسْتَحْفَقُهُ: ضُرُوْرِي وَ وَاِجِب مَہْرَا۔ الدِّيْنُ: اَدَا اِحْقِ كَا وَ قَت قَرِيْب اَنَا۔</p>	<p>اِسْتَحْفِي - ہ عن كَذَا: كِسِي مَعْضُ سِے كِسِي جِز كِے متعلق مبالغہ سے دریافت کرنا۔ الحَقْفَاةُ - كَہرِا پاؤں کی کھسائی۔ الحَقْفَاةُ وَ الخَفْوَةُ وَ الحَفِيَّةُ - مَعْنَى الحَقْفَاةِ - الحَفِيَّةُ: كِسِي جِز كِے متعلق پوری طرح علم رکھنے والا۔ عَزَّتْ وَ اَكْرَامُ وَ اَنْظَا وَ خُشِي مِّن مَّبَالِغِ كَرِيًا وَ اَلَا: كِسِي مَعْضُ كِے حَالَات كِے متعلق مِت سَوَال كَرِيًا وَ اَلَا - سَوَال كَرِيًا مِّن مِت اصرار كَرِيًا وَ اَلَا ج حَفْوَاةً۔</p>	<p>حَقَّنَ (ن) حَقْنًا: الشَّيْءُ: لِب مَبْرَلِيَا لِب مَبْرُوِيَا۔ اِحْتَفَنَ - الشَّجَرَةُ: بَرُ سِے اَكْبَرُا - الشَّيْءِ لِنَفْسِہٖ: لِيَا _____ مِّن الشَّيْءِ: مِت لِيَا _____ الرَّجُلُ: دُونُوں ہاتھ زانو کے نیچے ڈال کر اُتَاہَا۔</p>
<p>النَّاقَةُ: مَوْنِي ہونا۔ الرَّجُلُ: مَسْتَقِنُ سَرَا ہونا۔ الحَقِّي: م - سِتْہَا۔ رَاسْتِي یَقِيْن - اِنصَاف - ثَابِت شدہ حصہ۔ مال اور ملک۔ ہوشیار۔ فِیْعَل شدہ معاملہ۔ مَوْت - ج حَقْوِي اور کہا جاتا ہے</p>	<p>حَقَّنَ (ن) حَقْنًا: جِن مِّن مَّالِ ہونا۔ حَقِ اَلَا مَرُ: ثَابِت كَرِيًا _____ الخَبْرُ: حَقِيْقَتِ پَر مَطْلَع ہونا _____ العَقْدَةُ: بَانْدھنا _____</p>	<p>الحَقْنَةُ وَ الحَقْفَةُ: لِب مَبْرُ - وَ الحَقْفَةُ: مَرُ اِحْرَاجِ حَقْنُ۔ الحَقْفَجُ پست تہ۔</p>

"هو حق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔ "ولحق لا آتیک" بغیر توین کے یعنی تم ہے حق اللہ کی میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ "وحقا لا آتیک" توین کے ساتھ بغیر لام کے حقوق الدار: گھر کے منانے۔

الحقۃ: حق۔ حق یہ لفظ حق سے خاص ہے اس وجہ سے کہ حصہ معین پر دلالت کرتا ہے۔ تم کہتے ہو "ہذہ حقینی" یہ میرا خاص حصہ ہے۔ حقیقت امر۔ تم کہتے ہو "ولفت علی حقیقۃ ذلک الأمر" میں اس امر کی حقیقت پر مطلع ہو گیا۔ معیت۔

الحق: موزن سے کے سرے کا گڑھا۔ شرین کا سرا۔ بازو کا سرا۔ گول زمین۔ پابست زمین۔ کڑی کا جلا۔ حق الطیب: خوشبو کی ذبیحہ۔ حق حقیقی: الحقۃ۔ چھوٹا ترن۔ معیت۔ عورت۔ حق حق وحق وحق حقیقی۔

الحقی: من الابل: چوتھے سال والا اونٹن ہو یا مادہ۔ اور یہ اس لیے کہ اب وہ بار برداری کے قابل ہو گیا۔ اونٹنی جس کے دانت پودھا پے کی وجہ سے گر گئے ہوں۔

الحقیۃ: حق و واجب۔ الحقیق: لائق سزاوار کہا جاتا ہے۔ "هو حقیق ان یفعل کذا" وہ فلاں کام کرنے کے لائق ہے۔ "هو حقیق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔ والحقیق علی الشئ: حریص۔ لالچی۔ ج۔ ارجاء۔

الحقیقۃ: وہ چیز جس کی حمایت واجب ہو کہا جاتا ہے۔ "هو خاصی الحقیقۃ" وہ زمین حقیقۃ الحقیقی: یعنی وہ اس چیز کی حالت کرتا ہے جس کو واقع اس کے ذمہ لازم ہے۔

حق: وہ لفظ جو اپنے موضوع لہ میں مستعمل ہو۔ حقیقۃ الشئ: چیز کا حقیقی اور اصل۔ ج۔ حقیقی۔

الحاق: فا۔ وسط۔ کہا جاتا ہے "سقط علی حاقی ذابہ" اس کے وسط سر گر گیا۔ "وجلفہ فی حاقی الشفاء" میں اس کے پاس جالے کے وسط میں آیا۔ "وزکب حاقی الظرفی" وہ وسط راستہ پر چلا۔ کسی چیز میں کال۔ کہا جاتا ہے

"وجل شجاع حاقی الشجاع" وہ شجاعت و بہادری میں کال ہے۔ و "أخذنی حاقی الجوع" مجھے خالص بھوک لگی۔

الحاقۃ: الحاق کا مؤنث۔ معیت۔ قیامت۔ کہا جاتا ہے "هو رجل حاقۃ الوجہ" وہ مرواگی میں کال ہے۔ و "هو شجاع حاقۃ الشجاع" وہ بہادری میں کال ہے۔

الأحق: اسم تفضیل۔ "هو أحق من فلان" کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلاں سے زیادہ حق دار ہے اور کبھی بغیر شرکت کے صرف خصوصیت کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے "زیلنا حق بمالہ" زید اپنے مال کا حق دار ہے کسی دوسرے کا اس میں حق نہیں۔

المحقق: مذ۔ کلام تحقیقی: منظم کلام۔ ثوب محقق: مضبوط بنا ہوا کپڑا۔

المحققون: مذ۔ لائق۔ سزاوار۔ کہا جاتا ہے "هو محقق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔ "هو محقق ان یفعل کذا" وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔

الحقانی: حق کی جانب منسوب۔ جیسے ربانی رب کی جانب منسوب۔

حقب (س) حقیقاً وأحقب: المظن: ڈرنا۔ العام: بارش نہ ہونے سے خشک سال ہونا۔ المعین: ختم ہونا۔ دائل فلان: کم اور منقطع ہونا۔ الامر: خراب ہونا۔ أحقب: پیچھے سوار کرنا۔

أحقب: الائم: مرکب گناہ ہونا۔ زیدنا علی نالیہ پیچھے سوار کرنا () واستحقب: الشئ: ڈرنا۔ کرا۔ کجاہہ یا بالان کے پیچھے ہانڈنا۔

الحقب: ج۔ حقب و (المحقب) ج۔ احقاب و أحقب: اسی سال یا اس سے زائد کا عمر۔ زمانہ۔ ایک سال یا بہت سے سال۔

الحقب: اونٹ کا گھ۔ وہ چیز جس کو عورت اپنی کرہ بانڈ سٹی ہے اور اس میں زیور کو لٹکانی ہے۔

الحقیۃ: مذ۔ سال۔ ج۔ حقب و حقبو۔ الحقیۃ: ہوا۔

الحقاب: عورت کیلئے کرہ بانڈ کرہ زیور لٹکانے کی چیز۔ ناخن کے جڑی سفیدی ج حقب۔ الحقیقۃ: وہ چیز جس کو سوار گھوڑے پر اپنے پیچھے رکھے۔ مسافر کیلئے خوراک وغیرہ کا بیگ یا تھیلا۔ ج۔ حقب۔

الحاقب: وہ شخص جو پانچا نہ روکے ہوئے ہو۔ الأحقب: گور خر۔ مؤنث حقیقۃ۔ المحقب: لومڑی۔

حقد (ض) جقد و حقد و حقدیۃ و حقد (س) حقد و تحقد۔ علیہ: کینہ رکنا۔ صفت (حاقب) ج حقدۃ۔ حقد المظن: ڈرنا۔ المعین: کان کا ختم ہونا اور کچھ نہ مانا۔ العاقۃ: چرخی سے بھر جانا۔

أحقدۃ: کینہ در رہانا۔ القوم: کان میں تلاش کرنا اور کچھ نہ پانا۔ تحاقف: القوم: ایک دوسرے سے کینہ رکنا۔

أحقدف: المظن: رکنا۔ علی فلان: کینہ رکنا۔

الحقد: ج۔ أحقاد و حقدو (الحقینۃ) ج حقیقۃ: کینہ۔ الحقدو: بہت کینہ دور۔

حقر (ض) حقر و حقرۃ: ہموٹا ذیل کھنا۔ حقر الشئ و الوجہ: ذیل ہونا۔ بے قدر ہونا۔

حقر (س) حقر و حقر (ک) حقرۃ: ذیل ہونا۔ صفت (حقر و حقر و حقر) حقرۃ: ذیل کرنا۔

أحقر و أحقرۃ و استحققرۃ: ہموٹا ذیل کھنا۔

تحاقف: اپنے آپ کو ذیل کرنا۔ کہا جاتا ہے "تحاقفوا الی اللہ" یعنی ذیل ہو گیا۔ الحقارۃ و الحقارۃ و الحقارۃ و الحقارۃ: ذلت و بے قدری۔ کہا جاتا ہے "هذا الامر محقرۃ لک" یہ امر تمہارے لیے باعث ذلت ہے۔

المحقرات: ہموٹے ہموٹے۔

الحَقْفَةُ: پست تدریسا یک جسم والی عورت۔
الحَقْفُطُ والحَقْفِطَانُ: تیز اور بقول بعض
تیز۔ مونت الحَقْفِطَانَةُ۔

حَقْفٌ (ن) حَقْفُؤا۔ الطبی: ہرن کا ریک
کے تودہ میں بیٹھنا یا سونے کی حالت میں سڑک
ریک کے تودہ کے مانند ہونا۔ الشئی:
ٹیز ہونا۔ صفت (حالف)
إحْقُفُؤا۔ لہذا ٹیز ہونا۔

الحَقْفُفُ۔ دراز و بچیدہ تودہ ریت۔ رج
أَحْقَافٌ و حَقْفُؤٌ و حَقَافٌ و حَقْفَةُ و رَجٌ
حَقَافٌ۔

المِخْقَفُ۔ وہ شخص جو نہ کھائے نہ پئے۔

حَقِيلٌ (س) حَقِيلًا و حَقِيلَةً۔ البعیر او
الفرس: مٹی کھانے سے دردِ شکم میں مبتلا ہونا۔

حَاقِلَةٌ مَحَاقِلَةٌ۔ کھیتی کو خوشی میں بچنا۔

أَحْقَلْتُ۔ الارض: قابلِ زراعت ہونا۔

أَحْقَلُ الزَّرْعُ: پتے پھوٹنا۔ الرجلُ فی

الركوب: سواری کی پیٹ پر جم کر بیٹھنا۔

الحَقْفَلُ۔ عمدہ قابلِ کاشت زمین۔ کھیتی جب

تک سبز رہے۔ رج حَقْفُولٌ۔ واحد حَقْفَلَةٌ۔

الحَقْفَلُ۔ ہودج۔ (س) والحَقْفَلَةُ۔ گھوڑے

یا اونٹ کے بیٹھ میں مٹی کھانے کی وجہ سے

درد۔

الحَقْفَلَةُ۔ مغلطہ۔ الحعاء۔ دودھ یا پانی کا بقیہ۔

ردی کجور۔ کجور کا بچا کھیا۔ الحَقْفَلَةُ۔ بالفتح۔

حوض کا پانی ماندہ سال پانی۔

الحَقْفَلَةُ۔ بالکسر: پیالہ بھر سے کم۔

الحَاقِلُ۔ لہذا۔ کاشکار۔

المِخْقَلَةُ۔ کھیتی۔ رج مَحَاقِلُ۔

الحَقْفِئِلَةُ والحَقْفَانُ۔ ردی کجور۔

الحَاقِلُؤلُ۔ ایک قسم کی سبز رنگ کی لمبی پھولی۔

الحَقْفِئِلُ۔ بے خبر آدمی۔

الحَقْفِئِلُ۔ بد خو۔

الحَقْمُ۔ کبوتر یا کبوتر کی مانند ایک پرندہ۔

الحَقْفِئِمَانُ۔ کپٹی کی طرف کے دونوں گوشہ

چشم۔

حَقْفَنُ (ن ض) حَقْفَانًا۔ روک لینا۔ اور اسی سے

دفعہ: گرانے سے بچانا۔ مَاءٌ

وجہہ: آدمی کی خالصت کرنا۔ اللبِنُ:

مکھن لکانے کے لیے ٹھیکیزہ میں جمع کرنا۔

المريض: حنہ سے علاج کرنا۔

أَحْقَفَنُ۔ مزیدار ہونے کے لیے تلفت قسم کے

دودھ جمع کرنا۔

إحْقَفَنُ۔ المريض: پیشاب رکنا۔ حَقْفَنُ:

استعمال کرنا۔ الدمُ: ہرن کے اندرونی حصہ

میں تیز مارنے سے خون جمع ہونا۔

الحَقْفَنَةُ۔ ہر دو جو مریض کی مقدمہ سے پیٹ

صاف کرنے کے لیے چڑھائی جائے۔ رج حَقْفَنُ۔

الحَقْفَنَةُ۔ پیٹ کا درد۔ رج أَحْقَانُ۔

العَاقِلُؤا۔ فا۔ پیشاب روکنے والا۔ اور اسی سے

مشل ہے۔ "لا زانٍ لِحَاقِلِؤن" یعنی پیشاب روکنے

والے کی رائے کا اظہار نہیں۔ اس لیے کہ وہ اس

وقت اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ مشل منظر کے

لیے ہوتے ہیں۔

العَاقِلَةُ۔ الحاقِلِؤن کا مؤنث۔ عمدہ (اس معنی

میں صفت غالبہ ہے اس وجہ سے کہ وہ کھانے کو

روکتا ہے) نسل کی دونوں ہڈیوں کے درمیان کا

حصہ اور اسی سے مشل ہے۔ "لا لِحَقْفَنُ حَقْوًا أَقْلَكَ

بِذَوِّ إِنْكَ" اس مشل کو تمدید کے موقع پر ہوتے

ہیں۔

أَحْقَفِنُ۔ روکا ہوا۔ کہا جاتا ہے "مَسْفَاةُ اللَّبَنِ

أَحْقَفِنُ" اس نے اس کو ٹھیکیزہ میں جمع کیا ہوا

دودھ پلایا۔ رج حَقْفِنُ۔

المِخْقِنُ و المِخْقِنَةُ۔ حنہ کی پکاری

المِخْقِنُ۔ وہ ٹھیکیزہ جس میں دودھ جمع کیا جائے۔

المِخْقِنَانُ۔ پیشاب روکنے والا۔ عوام المِخْقِنُ

اور المِخْقِنَانُ کو پانی کی ٹنگی کے لیے استعمال

کرتے ہیں۔

حَقْفَاةُ (ن) حَقْفُؤا۔ کوکھ پر بارنا۔

حَقْفِي۔ درد کروا لانا ہونا۔ گوشت کھانے سے درد

شکم کروا لانا ہونا۔ صفت (مخقفؤ و مخقفِئِ)

حَقْفِي۔ درد کروا لانا ہونا۔

أَحْقَفُؤا۔ کوکھ۔ ازار۔ ہماز کا کنارہ۔ رج حَقْفَاةُ

وَأَحْقَفِي و أَحْقَافُ و حَقْفِي۔ کہا جاتا ہے "لاذَّ

بِحَقْفِيؤِي" اس نے اس سے فریاد ہی کی۔

الحَقْفَاءُ و الحَقْفُؤَةُ۔ ازار یا ازار ہا حصے کی

جگہ۔ گوشت کھانے سے پیٹ کا درد۔

حَقْكٌ (ن) حَقْكًا۔ الشئی بالشئی او علیہ

رگڑنا۔ گھسا۔ الشئی: پھلکا اتارنا۔

(س) وَأَحْكٌ و أَحْكًا۔ الكلامُ فی

صدرہ: دل میں اثر کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "ما

حَقْكٌ فی صدری کذا" میرے دل میں یہ بات

نہیں آتی۔

حَقْكٌ و أَحْكُهُ إِنْكَتَا و إِنْكَتَا

و إِنْكَتَا۔ راسہ: کھلانا۔ و إِنْكَتَا

بالشئی: کسی چیز کے ساتھ لازم ہونا۔

حَاكٌ مَحَاكَةٌ و حَكَاكًا۔ الرجلُ: ہماری

کرنا۔ متقابلہ کرنا۔

تَحَكُّكٌ۔ پہ: درپے برائی ہونا۔ اشل عرب

میں سے ہے "تَحَكُّكُ الْعُقُؤُبُ بِالْحَيْثَةِ"

اس کے حق میں بولتے ہیں جو اپنے قوی سے

بھگڑا کرتے۔

تَحَاكَا۔ ایک دوسرے کو کھلانا۔ ہام متقابلہ

کرنا۔

الْحِكُّ۔ حِكٌّ (س) و الحِكَاكُ، خارشنی

اونٹ کے کھلانے کے لیے درخت کا حصہ۔ کہا

جاتا ہے "لَلْإِنِّ حِكٌّ أَوْ حِكَاكٌ هُوَ" لہاں شر

کے اوپر غالب ہے وہ بہت اس سے متقابلہ کرتا

ہے۔

الْحِكُّ۔ جہاز رانوں کا لقب (لہذا لوللہ)

الْحِكَاكَاتُ۔ دوسرے (واحد حِكَاكَةٌ)

الْحِكَاكُ۔ رخام کی مانند سفید پتھر۔ سوڑھے

پلائے ہوئے پٹنے والی عورت کی مانند رنار۔

الْحِكَاكَةُ۔ نرم پتھروں والی زمین۔

الْحِكَاكُ۔ برائی والے۔ حاجات کے طلب

کرنے میں اصرار کرنے والے (واحد حِكَاكٌ)

الْحِكَاكَةُ۔ حکم کا اسم۔ خارش۔ کھلی۔ حکمت

الانف: ایک قسم کی سوزش جو ناک میں ٹھہری

ہوا کے پٹنے سے ہوتی ہے اور اس کا اثر دماغ

تک ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں۔

حِكٌّ۔

الْحَاكَةُ۔ دانت۔ کہا جاتا ہے "عَابِقِيؤِي فِيمَہ

حَاكَةٌ" اس کے ٹس میں دانت نہیں۔

الحُكَاكُ. سوزا۔ ایک قسم کا مرض جس میں کھلی ہوتی ہے۔
الحُكَاكَةُ۔ وہ جو کسی چیز کے رگڑنے سے گرے۔

الحُكَيْكَةُ: پہلی سچ حکایت۔
الْأَحْكَاکُ: ہم قول لوگ۔ کہا جاتا ہے "لَنْتَسْتَمِيزَ مِنْ أَحْكَاکِهِ" یعنی تو اس کے مردوں میں سے نہیں۔

الْأَحْكَاءُ: دماغوں سے خالی منہ والا۔ ترشا ہوا کمر۔
الحُكَاكُ: بہت رگڑنے والا۔ احمقانہ کے لیے سونے کو رگڑنے والا۔
المُحْكَلُ: کسوٹی۔

المُحْكَكُ: ضم۔ الجِدْلُ المُنْحَكُ: غار شقی اُونٹ کے کھلانے کے لیے درخت کا حصہ۔ کہا جاتا ہے "أَنَا جُدُّيْهَا المُنْحَكُ وَعُدَّةُهَا المُرْجَبُ" یعنی میری رائے سے شفا حاصل کی جاتی ہے جیسے اُونٹ سے شفا حاصل کرتا ہے۔

حُكَاؤُ (ف) حُكَاؤُ وَحُكَاؤُ وَحُكَاؤُ: الحُقْدَةُ: باندھنا۔ اِحْتِكَاتُ العُقْدَةِ: سخت ہونا۔ کہا جاتا ہے "اِحْتِكَا الشَّيْءُ فِي صَدْرِي" میرے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ پس مجھے شک نہیں۔
الحُكَاؤُ وَحُكَاؤُ: بڑا گرم۔

حُكَّذُ (ض) حُكَّذَا: الی اصلہ: رجوع کرنا۔
أَحْكُذُ وَحَاكَّذُ: اِلْتِمَ: واپس ہونا اور بھروسہ کرنا۔
حُكَّزُ (ض) حُكَّزَا: گھٹانا۔ ظلم کرنا۔ بری معاشرت اختیار کرنا۔ زندگی بسر کرنے میں عقل و شفقت ڈالنا۔

حُكَّزُ (س) حُكَّزَا: اصرار کرنا۔ صفت (حکبو)۔ بالامر: خود سر ہونا۔
حَاكَّزُ وَحَاكَّزُ: جھگڑا کرنا۔

تَحْكُزُ وَاحْتَكَّزُ: الشَّيْءُ: منگنا بیچنے کے لیے روک رکھنا۔ تَحْكُزُ: علیہ: السوس کرنا۔
الحُكَّزُ: ضم۔ (و الحُكَّزُ) تمورا پانی یا کھانا۔
بھونٹا ہوا۔

الحُكُّو وَالْحُكُّو: گراں بیچنے کیلئے روکی ہوئی چیز۔ تمورا کھانا یا دودھ۔

الحُكَّوَةُ: قلد کی بندش۔
الحَاكَّوَةُ: پائیں باغ۔ (عامیہ)
حُكَّشُ (ض) حُكَّشَا: الرجُلُ: مشابہ۔
الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ الرجُلُ: ظلم کرنا۔
الحُكَّيْصُ: وہ شخص جس سے لوگ بدگمان ہوں۔

حُكَّفُ (ض) حُكَّوُ فَا: الرجُلُ: کام میں شت ہونا۔

حُكَّلُ (ن) حُكَّلَا وَاحْتَكَّلُ: الامْرُؤُ علیہ: دشوار و مشتبہ ہونا۔
تَحْكَلُ: جرات سے اصرار کرنا۔

الحُكَلُ: وہ جس کی آواز سنائی نہ دے۔ کہا جاتا ہے "تَكَلَّمَ كَلَامَ الحُكَلِ" اس نے غیر معلوم گفتگو کی۔

الحُكَلُ: فی الفرس: گھوڑے کے ٹخنوں کا ڈھیلا پن۔
الحُكَلَةُ: کلام میں لکت۔ کہا جاتا ہے "فی لِسَانِهِ حُكَلَةٌ" اس کی زبان میں لکت ہے۔
جرات کی وجہ سے اصرار۔

حُكَمُ (ن) حُكَمَا: لوٹنا۔ واپس ہونا۔ کہا جاتا ہے "احکمه لحکم" اس نے اس کو واپس کیا اور وہ واپس ہو گیا۔ الفرس: گھوڑے کے منہ میں مکہ لگانا (دیکھئے لفظ حکمہ)۔
عَن: کڈنا۔ منع کرنا۔ باز کرنا۔
حُكَمُ (ک) حُكَمَا: واپس ہونا۔

حُكَمَةُ: حاکم بنانا۔ حکمہ فی الامر: فیصلہ کرنے کیلئے سپرد کرنا۔
عَن: کڈنا۔ لوٹنا اور منع کرنا۔

حَاكَمَةُ: جھگڑا کرنا۔ حَاكَمَتُهُ الی الحَاكِمِ: جھگڑے کو حاکم کے سامنے لے جانا۔

أَحْكَمُ: الشَّيْءُ: مضبوطی سے کرنا۔
أَحْكَمَتُهُ: التَّجَارِبُ: واناؤ و تلمذ ہونا۔
أَحْكَمُ السَّفِيْفَةُ: کسی برے کام کے کرنے سے ہاتھ پکڑ لینا یا بڑے انجام کو بتا دینا۔
عَن: رو کرنا۔ منع کرنا۔
الفرس: گھوڑے کے منہ میں حکمہ لگانا۔ (دیکھئے الحکمہ)

تَحْكَمُ: فی الامر: بغیر وجہ ظاہر ہوئے اپنی رائے سے فیصلہ کرنا۔ حکم جاری کرنا۔ خواہش کے مطابق تصرف کرنا۔

اِحْتَكَمُ: فی الامر: شیخ منظور کرنا۔
النَّاسُ الی الحَاكِمِ: مقدمہ لے جانا۔
علی فلان: ارادہ کے موافق طلب کرنا۔
فی الشَّيْءِ: خواہش کے مطابق تصرف کرنا۔
الامرُ: مضبوط ہونا۔

تَحَاكَمُوا الی الحَاكِمِ: مقدمہ لے جانا۔
اِسْتَحْكَمُ: الامرُ: مضبوط ہونا۔
علیہ الکلامُ: مشتبہ ہونا۔

الحُكْمُ: ضم۔ فیصلہ۔ ج۔ اَحْكَامُ۔
الحُكْمُ: حکم جاری کرنے والا۔ حاکم۔ فیصلہ کرنے والا۔ سرخ (مفرد و جمع دونوں کیلئے مستقل ہے) رجُلُ حُكْمٍ: فخر سیدہ مرد۔
الحُكْمَةُ: انصاف۔ علم۔ بیرواری۔ فلسفہ۔ حق کے موافق گفتگو۔ کام کی درستی۔ ج۔ حکم۔

الحُكْمَةُ: لگام کا وہ حصہ جو گھوڑے کے دونوں جیزوں کی جانب ہو۔
اللسان: چہرے کا سامنے کا حصہ۔ قدر و منزلت۔

الحُكْمَةُ: گورنمنٹ۔
الحَاكِمُ: قاضی۔ حکم نافذ کرنے والا۔ ج۔ حُكَمَاؤُ وَحَاكِمُونَ۔

الحُكِيمُ: دانا۔ عالم۔ ج۔ حُكَمَاءُ۔ مؤنث حُكَيْمَةٌ۔ قصیدہ حکیمہ: دانا بی قصیدہ۔
الحُكِيمُ: اللہ تعالیٰ کے اس لئے حسی میں سے ہے۔

الأَحْكَمَةُ: تحکم فی الامر کلام۔
المُحْكَمَةُ: کچھری۔ ج۔ حَاكِمِ۔

المُحْكَمُ: ضم۔ آرزو (و المُحْكَمِ) اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے والا۔

حُكِي (ض) حُكِيَا: عنہ الکلامُ: نقل کرنا۔
الحیو: بیان کرنا۔ فلائنا: مشابہ ہونا۔
الشَّيْءُ: مشابہ بنانا۔ حکمی علیہ:

چٹل خوری کرنا۔ العقیقہ: ہانڈھنا۔
أَحْكِي احْكَاةُ: العقیقہ: ہانڈھنا۔
حَاكِي مُحَاكَاةُ: مشابہ ہونا۔

إِخْتَلَىٰ أَخِيكَ أَلَا مَرْءٌ مَّعْبُودٌ هُوَ -
الْحِكْمِيُّ - جَمَلٌ غُورٌ - (نَدْرُومُونْت)
حَلٌّ (ن) حَلًّا - الْعَقْدَةُ - كَهْلَانٌ -
إِنْ حَلَّتِ الْعَقْدَةُ: كَهْلٌ جَاءَ -
حَلٌّ (ن ض) حُلُولًا - عَلَيْهِ امْرَأُ اللَّهِ: وَاجِبٌ
هُوَ -

حَلٌّ (ن ض) حَلًّا وَحَلَلًا وَحُلُولًا الْمَكَانَ
وَبِالْمَكَانِ: نَازِلٌ هُوَ - يَهْفِي الْمَكَانُ:
أَتَارَتْ -

حَلٌّ (ض) حَلًّا - الشَّيْءُ: حَلَالٌ هُوَ -
الدَّيْنُ: أَدَانِي كَلَوْتُ بِتَهْمَانَا -

الْيَمِينُ: قِسْمٌ پُورِي هُوَ - الرَّجُلُ: إِحْرَامٌ
سَ لَفْنَا -

حَلٌّ - الْجَامِدُ: يَهْلَأُ يَأْتِي - الْمَكَانُ:
أَبَادٌ هُوَ -

حَلٌّ (س) حَلًّا - يَأْتِي يَأْتِي فِيهِ وَيَهْلَأُ
هُوَ - صَفَتْ (أَحَلَّ) حَلًّا -

حَلَّلٌ تَحْلِيلًا وَتَجَلَّلٌ وَتَجَلَّى: الشَّيْءُ:
حَلَالٌ مُهْرًا - التَّجَلَّى: كَفَّارَةٌ أَدَاكَرَتْ -

حَلَّلَهُ بِالْمَكَانِ: أَتَارَتْ -
أَحَلَّ إِخْلَالًا - عَمِدٌ وَمِشَاقٌ سَ أَدَارٌ هُوَ

الْمُعْتَمَرُ: إِحْرَامٌ سَ نَهْلٌ جَاءَ - شَهْرٌ حَرَمٌ
كَ عِلَافَةٍ مَيْمُونٍ فِي دَاخِلٍ هُوَ - بِنَفْسِهِ:

مُسْتَقِيمٌ سَرَا هُوَ - أَحَلَّهُ بِالْمَكَانِ أَوْ الْمَكَانِ:
أَتَارَتْ - الشَّيْءُ: حَلَالٌ كَرْنَا - عَلَيْهِ

الْأَمْرُ: وَاجِبٌ كَرْنَا - النَّالِقَةُ عَلِيٌّ وَلِدَهَا:
دَوْدٌ جَارِي هُوَ -

إِنْ حَلَّ: كَهْلٌ جَاءَ -
تَحَلَّلَ: لِي يَمِينِهِ: شَرْطِيَّةٌ قِسْمٌ كَهَانَا - جِيئَ

وَاللَّهُ لَا يَهْلَعُنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: يَا أَلَا إِنْ
يَكُونُ كَذَا - مِنْ يَمِينِهِ: كَفَّارَةٌ أَدَاكَرَكَ

أَزَادٌ هُوَ جَاءَ - حَلَّلَهُ: حَلَالٌ كَرُوئِيَّةٌ كُوْجَابَانَا -
إِخْتَلَى: الْمَكَانُ وَبِالْمَكَانِ: أَتَارَتْ - أَدَارِيَا

ي كَمَا جَاءَ - إِخْتَلَى الْقَوْمُ وَبِالْقَوْمِ: دَهْ قَوْمٌ
كَهْلٌ أَتَارَتْ -

إِسْتَحَلَّ: الشَّيْءُ: حَلَالٌ كَهْلًا يَحَلُّ حَلَالٌ كَرَلِيْنَا -
إِسْتَحَلَّهُ الشَّيْءُ: حَلَالٌ مُهْرًا كَ إِجَازَتِ

جَاءَانَا -

الْحَالُ - فَ: حِ حُلٌّ وَ حُلُولٌ وَ حَلَالٌ - وَ
(الْحَلَالُ) حَالٌ كَلَامٌ مَبَالِغٌ - كَمَا جَاءَ - "فَلَا يَلِي
حَلَالٌ لِلْعَقْدِ كَمَا فِي الْمَشْهُدَاتِ" فَلَا مَرْهُوسٌ كَا
بِنَا كَهْلِيَّةً وَاللَّوْءُ مَشْكَاتٌ كَيْلِيَّةً كَانِيَّةً -
الْحَلُّ: قَلٌّ كَاتِلٌ -

الْحَلُّ: نَم - حَلَالٌ - عَمْدٌ كَمَرَمٌ كَ أَرْدُ كَرُورَم
مَحْتَرَمٌ كَ عِلَافَةٍ كَمَكَةٍ - كَسِي كَمَكَةٍ فِي أَتَرْتِ وَاللَّوْءُ - جِيئَ
"مَازَلْتُ جَلًّا بِهَذَا الْبَلَدِ" فِي مَبِيئَةِ اس شَهْرِي فِي
أَتَرْتِ وَاللَّوْءُ -

وَالْأَشْهُرُ الْجَلُّ: بِشَهْرٍ حَرَمٌ كَ عِلَافَةٍ مَبِيئَةٍ -
الْحَلُّ: نَشَانَةٌ - جِيئَ بِشَهْرٍ تَادِزِي كَي جَاءَ - قِسْمٌ
سَ هَرِي هُوَ -

الْحَلُّ وَالْحُلُّ: إِحْرَامٌ سَ نَهْلِيَّةً كَاوَقْتُ - كَمَا جَاءَ
هُوَ "فَعَلَهُ فِي حَيْلِهِ وَ حُزْمِهِ" اس نَ اس كُو
إِحْرَامِي فِي أَدَارِ إِحْرَامِي سَ نَهْلِيَّةً كَ وَقْتُ كَمَا -

الْحَلَّةُ: طُولٌ كَلَامٌ مَرَه - نَزَلُ كَابِيَا هُوَ إِذَا نَوَكِرَا -
(ه) وَالْحَلَّةُ: أَتَرْتِ كَي كَمَكَةٍ - مَجْلِسٌ - جِيئَ

هُوَ كَي كَمَكَةٍ - مِنْ الشَّيْءِ: جَمْتٌ وَجَانِبٌ -
رَجٌ حَلَّلٌ وَجَلَالٌ - أَدَارٌ كَمَا جَاءَ "فِيهِ حَلَّةٌ أَوْ

جَلَّةٌ" اس فِي كَمَرُورِي هُوَ - الْحَلَّةُ: أَتَرْتِ كَي
بِيئَتِ - نَازِلٌ هُوَ فِي قَوْمٍ جُوْهَرٌ زِيَادَةٌ هُوَ - كَمَا

جَاءَ "جِيئَ حَلَالٌ" أَتَرْتِ وَاللَّوْءُ قَبِيْلَةٌ جِن كَ
أَنْدَرِيئَتِ كَمَرُورِي هُوَ -

الْحَلَّةُ: نِيَا كَبِيْرًا كَبِيْرُوْنَ كَاوَجُوْرًا - تَهْمِيَارٌ - كَمَا جَاءَ
هُوَ "نَيْسَتِ الْمَحَارِبُ حَلَّتَهُ وَبَرَّقَتْ" جِن كَ

كَرْنَا وَاس نَ اِنْبَابِيَا سَ أَدَارِ تَهْمِيَارِ اسْتِهْلَالِ كَمَا -
رَجٌ حُلٌّ وَجَلَالٌ -

الْحَلَّةُ: جِرْحَةٌ (مَوْلِدَةٌ)
الْحَلَالُ: ضِدُّ حَرَامٍ - إِحْرَامٌ سَ نَهْلِيَّةً وَاللَّوْءُ -

وَالْبَسْحُ وَالْحَلَالُ: تَعَجُّبٌ أَمْرٌ جِن سَ
مَحَلٌّ جِرَانٌ هُوَ جَاءَ - الْحَلُّ وَالْحَلَالُ: كَلَامٌ جِن

فِي شَكِّ نَدُوْءٍ -
الْحَلَالُ: ضِدُّ حَرَامٍ - كَبَادَةٌ كَاوَسَامَانٌ - مَوْرُوْتِي كَي

أَيُّكَ سَوَارِي -
التَّحْلِيلُ: حَلَالٌ - شُوْهَرٌ () وَالتَّحْلِيلَةُ

يُوْءِي - التَّحْلِيلُ: كَمَرُورِي فِي كَمَرُورِي سَ تَهْمِيَارِ سَ تَهْمِيَارِ
أَجَلًا مَوْئَتٌ حَلَّلِيْنَا وَحَلَّلِيْنَا رَجٌ حَلَالِيْنَا -

الْأَحَلُّ: نَاغَمُوْنَ فِي كَمَرُورِي وَاللَّوْءُ مَوْئَتٌ حَلَاءٌ

حِ حُلٌّ -

الإِخْلَالُ - إِفْعَالٌ حِ سَ فَرَغَتْ -
الإِخْلِيلُ: بِيئَتِيَابٌ نَهْلِيَّةً كَاوَسَوْرَاغٌ لَهْمَانٌ فِي

دَوْدَةٍ نَهْلِيَّةً كَاوَسَوْرَاغٌ - رَجٌ أَحَالِيْلٌ -
التَّجَلُّةُ: قِسْمٌ كَاوَسَوْرَاغٌ فِي قِسْمِيْنَا اسْتِهْلَالِ

التَّحْلِيلِ - بِمَعْنَى الْإِحْلَالِ -
الْمَحَلُّ: أَتَارَتْ - أَتَرْتِ كَي كَمَكَةٍ - رَجٌ مَحَلٌّ -

وَحَلٌّ - الدَّيْنُ: أَدَانِي كَلَوْتُ قَرْضٌ كَاوَقْتُ -
الْمَحَلُّ: فَ: رَجُلٌ مُجَلٌّ: حَرَمٌ كَي پَرُوْدِي

كَرْنَا وَاللَّوْءُ -
الْمَحَلَّةُ: أَتَرْتِ كَي كَمَكَةٍ (الْمَحَلِّيَانُ) بَاهِزِي وَ

بَجِي (الْمَحَلَّاتُ) بَاهِزِي وَ بَجِي وَوُؤُلٌ - مَهْكٌ وَ
بِيَالَهُ وَجَمْرِي: كَمَا زِيَا - اس لِيئِي كَ جِن كَ كَاسِ

بِي سَبْ جِيئِي هُوَ كَي دَهْرٌ كَمَكَةٍ أَتَرْتِ كَمَا -
الْمَحَلُّ: نَم - مَاءٌ مُحَلَّلٌ: أَوْتَانُوْنَ كَ

أَتَرْتِ سَ كَمَلَا بَاهِيَا - مَكَانٌ مُحَلَّلٌ: دَهْ كَمَكَةٍ
جَمَلٌ كَمَرُورِي سَ لُوْغٌ أَتَرْتِ - رَوْضَةٌ أَوْ مَكَانٌ

وَمَحَلٌّ: بَلُغٌ يَامَكَانٌ جَمَلٌ كَمَرُورِي سَ لُوْغٌ
أَتَرْتِ -

حِلَاةٌ (ف) حَلَا - بِالسَّيْفِ: تَمَارٌ سَ مَارَا
- هَالِسُوْطٌ: كَبُوْرِي سَ مَارَا -

الْأَرْضُ: بَجَاهُزِيَا - حِلَاةٌ الشَّيْءِ: دَوْبَةٌ حَلَا
الْحَلَّةُ: كَمَلٌ أَتَارَتْ (حِلَاةٌ وَأَخْلَاةٌ) كَسِي كُو

سَرْمَدِيَا جِن لَكَانَا - حِلَاةٌ حَلُولَةٌ: كَسِي كَ لِيئِي
سَرْمَدِيَا جِن رَكْرَكَا -

حَلِيٌّ (س) حَلَا - الْإِدِيمُ: كَمَلٌ أَتَارَتْ
هُوَ سَ جَمْرِي لُكٌ كَرُورِي هُوَ - حَلِيَّتِي

الشَّفَّةُ: هُوْنْتُ پَرْمَالِي پَرْمَالِي -
حَلَاةٌ تَحْلِيْلًا وَ تَحْلِيْلَةً: عَنِ الْمَاءِ:

دَحْكَارَتَا - يَآئِي پَر أَتَرْتِ سَ رُوْكَنَا - ه
الشَّيْءِ: دَوْبَةٌ -

الْحَلْوَةُ وَالْحَلَاةُ: سَرْمَدٌ - هَمْزَةٌ پَر كِي جَمَلِي
جِن كُو دَوْبَاغٌ أَتَارَتْ - هَرُوْدَةٌ جِيئِي جِن كُو رَكْرَكَا

أَكْمَكِي فِي لَكَانَا -
الْحَلَا وَالتَّحْلِيْلِي وَالتَّحْلِيْلَةُ: هَمْزَةٌ كَ

بَالٍ - يَآئِي هَمْزَةٌ كَامِلِي وَبِيَايِي - التَّحْلِيْلِي: جَمْرِي لُكَا
هُوَ هَمْزَةٌ - الْحَلَاةُ: نَجَارٌ كَ بَعْدُ هُوْتُوْنَ پَر بِيئِي

وَالْإِحْلَالُ -

حلس

حلف

حلق

۱۷۱

حزبہ: قوم کا لازم ہونا۔ تَحَالُفًا: باہم عہد دینا کرنا۔ الْحَلْفُ وَالْحَلْفُ وَالْأَخْلَافُ: قوم۔ الحلف: عہد۔ عہد دینا۔ دوستی۔ دوست جو یہ وقتی نہ کرے کہی قوم کھائے۔ حجِ اَخْلَاف۔ کہا جاتا ہے "فلان حلف کذا" یعنی فلاں اس سے عہد نہیں ہوتا۔ الْحَلْفَاءُ: ایک بولی تو کہی جیسے کجور کی شاخ پالی بننے کی جگہ آتی ہے۔ واحد حَلْفٌ وَحَلْفَاءُ۔ الْحَلْفَاءُ: بہت پیچھے والی لڑائی۔ حجِ حَلْفٍ وَ حَلْفٍ۔ ارض (حَلْفٌ وَحَلْفَةٌ) حلفاء گھاس والی زمین۔ الْحَلْفِيُّ: وہ جگہ جس میں حلفاء گھاس بہت آگے۔ الْحَلْفُ وَالْحَلْفَةُ: بہت قسمیں کھائے والا۔ الحلیف: عہد و پیمان کرنے والا۔ لازم۔ ساحی۔ کہا جاتا ہے "فلان حلیف الجود" فلاں جو رو بخشش کا حلیف ہے، یعنی بڑا فیاض۔ "فلان حلیف الیسان" فلاں جو ب زبان فصیح ہے حجِ حَلْفَاءُ۔ المخلف: حکم کی چیز جس کے عہد کرنے کے لیے قوم کی ضرورت ہو۔ کہا جاتا ہے "هذا علاء مخلف" یہ ایسا لڑاکا ہے جس کے احکام میں حکم ہے۔ الحلیف: بہت گوشت والی بکری۔ الحلیفی: جنگ۔ حَلَقٌ (ض) حَلَقًا وَ تَحَلَّقًا: الواض: مویڑنا۔ حَلَقٌ (ن) حَلَقًا: الرجل: حلق پر مارنا _____ الحوض: بحرنا _____ الشقی: چھینا۔ الشقی القوم: معیبت میں ڈالنا۔ صفت (حَلَقِي) _____ القوم بغضہم بعضا: ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ حَلَقِي (س) حَلَقًا: حلق کے رو رو والا ہونا۔ حَلَقٌ: الواض: مویڑنا (تشریح کثرت کے لیے ہے) _____ الطائر: اڑنے میں پکر لگانا	آخَلَشَ: سرخ مائل بیسیا ہونا۔ صفت (أَخْلَسَ) مَوْنَتْ (حَلَسَتْ) إِسْتَحْلَسَتْ: الارض: سرسبز ہونا۔ _____ النبت: زمین کو ڈھانپ لینا _____ اللیل: سخت تاریک ہونا _____ الخوف فلاں: خوف کا لازم رہنا۔ الحلیس والحلیس: زمین یا کجاوہ کے نیچے بچھائے کا کپڑا۔ قیمتی فرش کے نیچے بچھائے کا کپڑا۔ حج أَخْلَسَ وَ حَلَسَ وَ حَلَسَتْ: أَخْلَسَ الخیل: گھوڑوں پر ہی سوار ہونے والے اور کہا جاتا ہے "فلان حلیس بہتہ" فلاں ہمیشہ اپنے گھر ہی میں رہتا ہے اور یہ عربوں کے نزدیک قابل ذمت ہے۔ "وہو حلیس من أَخْلَسَ البیاد" یعنی وہ صاحب عزت و قوت ہے (اور یہ قابل مدح ہے) و "کونوا أَخْلَسَ بئوئکم" تم ہمیشہ خانہ نشین رہو و "هذا لیس من أَخْلَسَ فلان" یہ فلاں کا گھر نہیں ہے۔ "وَقَفَضَتْ كَذَا وَ نَقَضَتْ اخلاصہ" یعنی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ الحلیس: عہد دینا۔ جوئے کا چوتھا۔ سردار۔ بہادر۔ ام حلیس: گدھی۔ الحلیس: عہد دینا۔ الحلیس: بہادر۔ حلیس جو اپنی جگہ سے جدا نہ ہو۔ سرخ یا بی مائل۔ الحلیس: حلیس لالچی۔ ارض (مخلیسہ) وہ زمین جس میں گھاس بہت آگے ہوئی ہو۔ الحلیس: لالچی۔ حلیس۔ حَلَقًا (ن) حَلَقًا: قوم کھانا _____ فی الامر: اصرار کرنا اور جلدی کرنا۔ غضبناک ہونا۔ حَلَقًا (س) حَلَقًا وَ اِحْتَلَقَ: علیہ: غضبناک ہونا _____ منہ: زنج ہونا۔ أَحْلَقَ: بسمی حَلَقَ _____ ہ: غضبناک کرنا _____ بالمکان: اقامت _____ فی الیمون: کوشش کرنا۔ حَلَفٌ (ض) حَلَفًا وَ حَلَفًا وَ حَلَفًا وَ تَحَلَّفًا: حَلَفًا: حلف کرنا۔ أَحْلَقُوا حَلَفًا وَ اسْتَحْلَقُوا: حلف کھانا۔ حَلَفًا وَ حَلَفًا: معاہدہ کرنا۔ حالف فلاں	جس پر چٹنی گھومتی ہے۔ المخلج والمخلجة: وہ چیز جس پر روٹی دھنی جائے۔ حَلَجَلٌ: الشقی: حرکت دینا۔ ہٹانا _____ القوم: قوم کو ان کی جگہ سے علیحدہ کر دینا۔ تَحَلَجَلٌ: عن مکانہ: حرکت کرنا۔ دور ہونا۔ ہٹ جانا۔ الخلجل: سردار۔ بہادر۔ کال۔ حج خلجل (اسی معانی میں مَحَلَجَلٌ وَ مَحَلَجَلٌ بھی ہیں)۔ حَلَجٌ (ن) حَلَجًا: الجِلْدُ وَ القَوْدُ: چھینا۔ تَحَلَجٌ: الشقی: ہٹی رہنا _____ القلب: درد مند ہونا _____ للامر: تیار ہونا _____ بالمکان: اقامت کرنا۔ إِحْتَلَجَ: عنہ حقہ لینا۔ الجَلَجُ: بچل۔ بدخلق۔ پست قدم۔ الو۔ ایک قسم کالڈ۔ واحد (حَلَجٌ)۔ الْحَلَجُونُ: ایک قسم کا آبی جانور جو پتلی میں ہوتا ہے۔ سگہ۔ الْحَلَجُونَةُ: فی عرف الحدادین و النجارین: لوہاروں اور پویموں کے عرف میں حج دار کیل کو کہتے ہیں۔ شکل او خط (حَلَجُونٌ) گھونٹنے کی میت کی مثل۔ حَلَسٌ (ض) حَلَسَتْ: البصر: ثابت سے ڈھانچا _____ الرجل بالشقی: بہت حلیس ہونا _____ السماء: لگا کار نرم رہنا۔ حَلَسَ (س) حَلَسًا وَ تَحَلَسَ: بالمکان: کسی جگہ میں جم کے رہنا _____ للآمر: کسی کام کے لیے پکر لگانا۔ کہا جاتا ہے "ما تَحَلَسَ منہ بشئ و ما تَحَلَسَ شیئا" اس نے اس میں سے کچھ نہیں پایا۔ أَحْلَسَ: الرجل: مٹل ہونا _____ فلاں فی البیع: نقصان پہنچانا _____ ہ: عہد و پیمان کرنا۔ أَحْلَسَتْ السماء: لگا کار بلی بارش ہونا _____ الارض: سرسبز ہونا۔ أَحْلَسَتْ العوف: خوف کا لازم کرنا۔ حَلَسَتْ: لازم ہونا۔ حَلَسَ البعیر: ثابت سے ڈھانچا۔
--	--	--

اِنْخَلَمَ وَاخْتَلَمَ فِی نَوْمِهِ: خواب دیکنا۔
الجَلْمُ: صبر و استقامت۔ بروہاری اور کبھی جمل و
یوقنی کے مقابلہ میں آتا ہے جیسے "وَأِنْ سَفَاةَ
الشَّمِخِ لِجَلْمٍ بَعْدَهُ" عقل۔ جِ اَخْلَامٍ و
خَلْوَمٍ: کہا جاتا ہے "تَأْمُرُهُمْ اَخْلَامُهُمْ بِهَذَا"
ان کی عقلیں اس کا حکم دیتی ہیں۔

الخَلْمُ: مد۔ خواب۔ جِ اَخْلَامٍ: اور کہا جاتا
ہے "هَذِهِ اَخْلَامُ نَالِمٍ" یہ جھوٹی آرزوئیں
ہیں۔

الخَلْمَةُ: سرپٹاں۔ ایک قسم کا کپڑا جو چڑے
میں لگ جاتا ہے اور اس کو خراب کر دیتا ہے۔ جِ
خَلْمٍ:

الخَلِيمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے
ہے۔ مونا کی کی چربی۔

الخَلَامُ: کبھی کا پتھر۔

الخَالُومُ: ایک قسم کا پتھر یا گاڑھا دودھ جو تازہ
پنیر کے مشابہ ہو جائے۔

الخَيْلَمُ: چھوٹے چالور۔

التَّخْلِيمَةُ: بسمت کبڑے والا۔ جِ تَخَالِمٍ:

الأَخْلَامُ: اجسام (جمع ہے بغیر مفرد کے)

خَلَا (ن) و خَلْوًا (ک) و خَلِي (س) خَلَاوَةً
و خُلُوًّا: بیٹھا ہونا۔ الفَاكِهَةُ: پختہ ہونا

خَلَاوَةُ الشَّيْءِ: لذیذ ہونا۔ صفت (خَلُو) اور کہا
جاتا ہے۔ خَلِي فِی عَيْنِي و بَعِينِي "وہ میری

آنکھوں میں بھلا معلوم ہوا۔ خَلَامَنَهُ بِخَيْرٍ: خیر
و منفعت حاصل کرنا۔

خَلَاةُ (ن) و خَلْوًا و خُلُوًّا: تھوڑا یا پورا امر
وصول کرنے کی شرط پر لڑکی یا عورت کی شادی کرنا

حَلَاةٌ كَذَا اَوْ يَكْلَا: رہنا۔ کہا جاتا ہے "حَلَاةُ
حَلْوَانِهِ" اس نے اسے بدل دیا۔

() و خَلِي (س) الشَّيْءِ (تَخْلِيَةً) بیٹھا بنانا۔
(حَالِي) مُخَالَاةُ الرَّجُلِ: خوش طبعی کرنا۔

أَخْلَاةُ اِخْلَاةٍ: بیٹھا پانا یا بیٹھا بنانا۔ کہا جاتا ہے
"مَا يَبْرُؤُ وَلَا يَخْلِي" یعنی وہ نہ کڑی باتیں کرتا

ہے نہ نیکی بیان۔ اچھا کام کرتا ہے نہ بُرا۔
تَخَلَّتْ: المرأَةُ: زبیر پھنکا۔ کہا جاتا ہے

"حَلِي فُلَانٌ بِمَا لَيْسَ لِيْنِهِ" فلاں نے اپنے
آپ کو ایسی چیزوں سے آراستہ کیا جو اس کے

الْحَالِقَةُ: الحالق کامؤنث۔ موت۔ بَرَا قَوْلَ:
مُخْتِ سَالٍ جِ حَوَالِقِي:

الْحَالِقِي: موت۔

الْحَالِقَةُ: مِنَ السِّبُوفِ اَوِ الرَّجَالِ: تَبْرُ:
العَوَالِقُ و الخَوَالِقُ: بلاد مصیبت۔

الخَوَالِقَةُ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ" کہنا۔

الخَالِقِي: مونڈا ہوا۔ کہا جاتا ہے "شعر خَلِيقِ
و لِحْبَةِ خَلِيقِ" مونڈا ہوا بال مونڈی ہوئی

دارمی۔ جِ خَلْفِي:

المِخْلَقُ: اَسْرَهُ: مِخْتِ كِبَلٍ:

الجِلْدُ: بَدْرُو:

خَلْقَمَهُ: گلا کاٹنا۔

الخَلْقُومُ: گلا۔ جِ خَلَا قِيمِ:

خَلِكٌ (س) خَلْوَكَةٌ و خَلِكًا و خُلُوْكًا
وَ اِخْلُوْكًا و اِسْتَخْلَكَ: مِخْتِ سِيَاهِ: صفت

(خَالِكٌ و خَلِكٌ)

الخَلِكُ و الخَلِكَةُ: مِخْتِ سِيَاهِي:

الخَلِكَةُ و الخَلِكَاةُ و الخَلِكَاةُ و الخَلِكَاةُ
وَ الخَلِكَاةُ و الخَلِكَاةُ:

الخَلِكُومُ و الخَلِكُوكُ: مِخْتِ سِيَاهِ:

الخَلِكُمُ: سِيَاهِ:

الخَلِكَمَةُ: سِيَاهِي:

خَلْمٌ (ن) خَلْمًا و خَلْمًا: فِی نَوْمِهِ: خواب
دیکنا۔ کہا جاتا ہے "خَلْمُهُ و خَلْمُهُ" اس نے اس

کو خواب میں دیکھا۔ خَلْمُ الصَّبِيِّ (وَ اِخْتَلَمَ) بِالْبَلْغِ
ہوتا۔ () خَلْمًا: الجِلْدُ: کبڑے کاٹنا۔

خَلْمٌ (ک) جِلْمًا: دُرُزُرُ کرنا۔ بروہاری ہونا۔

صفت (حَلِمٌ) جِ خَلْمَاءُ و اَخْلَامٌ: مؤنث
خَلِيمَةٌ:

خَلِمٌ (س) خَلْمًا: الجِلْدُ: خراب ہونا اور
کبڑے پر پڑنا۔ صفت (حَلِمٌ و حَلِيمٌ)

أَخْلَمْتُ: المرأَةُ: حَلِمٌ و بروہاری بچے جانا۔

خَلْمَةٌ: تَخْلِيْمًا و جِلْمًا: بروہاری بنانا۔ خَلْمٌ
الجِلْدُ: کبڑے کاٹنا۔ القُرْبَةُ: بھرتا۔

تَخَلْمٌ: بروہاری بننا۔ الوَحْلُمُ: بروہاری
سے کام لیتا۔ الرَّجُلُ: مونا ہونا۔ تَخَلْمَتْ

القُرْبَةُ: پانی سے بھرجانا۔

تَخَلْمٌ: مِخْتِ سِيَاهِي سے بروہاری بنا کر کرنا۔

القَمْرُ: بال پڑنا۔ الشَّيْءُ: حلقہ کی
مانر بنانا۔

الاناءُ مِنَ الشَّرَابِ: بھرتا۔

الحَوْضُ: خشک ہونا۔ عَيْنُ الحَيْوَانِ:
دھنس جانا۔ النَجْمُ: بلند ہونا۔

ضَرْغُ التَّفَاةِ: دودھ کا خشک ہو جانا۔

أَخْلَقِي: الاناءُ اَوِ الحَوْضُ: بھرتا۔

تَخَلَّقِي: القَوْمُ: حلقہ بنا کر بیٹھنا۔

القَمْرُ: بال پڑنا۔

اِخْتَلَقِي: الراسُ: مونڈنا۔

الخَلْقِي: مد۔ گلا۔ جِ اَخْلَاقٍ و خُلُوْقٍ و
خُلُقٍ: خُلُوْقٍ: الارضُ: نالیوں۔ وادیاں۔ کہا

جاتا ہے "أَخْلُوا لِي خُلُوْقِ الطَّرِيقِ" انہوں
نے گھر راستے اختیار کئے۔ الخَلْقِي: بد بختی۔

الخَلْفَةُ: ہر گول چیز۔ زرد۔ رستی۔ جِ خَلْقٍ و
خَلَقَاتٍ: و حلقہ القوم: قوم کا دائرہ۔

کہا جاتا ہے "سَأَلْتُ لِي خَلْفِي" اس نے اس
سے مانگا جبکہ وہ مانگنے والوں کے حلقہ میں تھا۔

حلقہ الحوض: حوض کا بھرتا۔

خَلْفَةُ: البابُ اَوِ القَوْمُ: دروازہ کا حلقہ یا قوم
کا دائرہ۔

الجَلْقُ: بادشاہ کی انگوٹھی۔ بغیر ہمینہ کی
انگوٹھی۔ بسمت موشی۔

الخَلْقِي: بے بال کا۔ راش خَلْقِي: بے بال کا
سر۔

الخَلَاقِ و خَلَاقِي: بروزن نظام بنی علی الکسر
معدول از خَالِقَةُ: موت۔

الجَلَاقِي: گلا۔

الخَلَاقِ و الخَوَالِقُ: گلے کا درز۔

الخَلَاقِي: نالی کا جام۔

الخَلَاقَةُ: مونڈے ہوئے بال۔

الجَلَاقَةُ: نالی کا پتھر۔

الخَالِقِي: نالی۔ جِ خَلْفَةُ: مِنَ الجَبَالِ:
بلند پہاڑ جس میں پیدادار نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "جاء

مِن خَالِقِي" وہ بلند جگہ سے آیا و "هَوَى مِنْ
خَالِقِي" وہ اونچی جگہ سے گرا یعنی ہلاک ہو گیا۔
"ضَرْعُ خَالِقِي": بھرا ہوا تھن۔ پیٹ سے سٹھا
ہوا تھن (ضد) جِ خَلْقٍ و حَوَالِقِي:

اس لیے کہ اس میں "ح" تانیث کیلئے نہیں بلکہ تائے وحدت ہے اور بسا اوقات حمام مفرد کے لیے بھی بولتے ہیں۔ حج حَمَائِم و حَمَائِمَات حَمَام الزَّاجِلِ اَوْ الزَّجَالِ: پیغام و مخلوط لے جانے والے کبوتر۔

سَاقِي الحَمَامِ و رَعِي الحَمَامِ: دو قسم کی گھاس کے نام۔ بَيْضُ الحَمَامِ: انگوڑی ایک قسم جس کے دانے بڑے ہوتے ہیں۔ حَقِ الحَمَامِ: ایک قسم کارنگ جو سرخ اور نیلے کے درمیان ہوتا ہے۔

الحَمَامِ: موت۔

الحَمَامِ: جانوروں خصوصاً گھوڑوں کا بخار۔ سردار شریف۔

الحَمَامِي: ایک قسم کی گھاس۔ کھال کی سرفی۔

الحَمَامِ: غسل کرنے کی جگہ۔ یہ بکھرت موٹہ مستعمل ہوتا ہے اور بھیڑ کر بھی حج حَمَائِمَات۔

الحَمَامِي: حمام والا۔ حمام کا نگہبان۔

الحَمَامَةُ: اپنے خاص لوگ۔ عمدہ اونٹ۔

الحَمِيمِ: قرعہ ریشہ دار۔ دوست۔ حج اِحْمَاءُ: گرم پانی۔ ٹھنڈا پانی۔ چنگاری جس سے دعویٰ دی جائے۔ حج حَمَائِمِ: الحَمِيمِ: گرمی۔ بید۔ سخت گرمی کے بعد بارش۔ کہا جاتا ہے "ہو حَمِيمٌ بِالْحَاجَةِ" وہ حاجت پر فریفتہ ہے۔

الحَمِيمَةُ: حمیم کا موٹہ۔ گرم پانی۔ گرم کیا ہو اور وہ۔ عمدہ نسل کا اونٹ۔ حج حَمَائِمِ:

الاحْمَاءُ: بہت خاص و بہت قرعہ۔ کالا۔ سفید (خدا بے کجلی کا تیسرا جنم۔)

المِحْمُ: پانی گرم کرنے کا برتن۔

المِحْمُ: قریب۔

المِحْمُ: ثابت۔

المِحْمُومِ: بخار والا۔ مقدر۔ کہا جاتا ہے "نَزَلَ بِهِ الْقَضَاءُ الْمِحْمُومُ" اس پر قضاء مقدر کا نزل ہوا۔

المِسْحَمُ: غسل کرنے کی جگہ۔

المِسْحَمُومِ: کالا۔ وحوال۔

حَمًا (ف) حَمًا: البئر: کنوئیں سے

قریب ہوتا۔ الرجل: بخار زدہ ہوتا۔ لَهْ كَذَا: مقدر کیا جانا۔

حَمَم (س) حَمَمًا: کالا ہونا۔ الماء: گرم ہونا۔

حَمَمٌ: الغلام: سبزہ آغاز ہونا۔ الراس: مونڈنے کے بعد بال لگنا۔ المكان: روئیدگی ظاہر ہونا۔ الشئ: کالا کرنا۔

الماء: گرم کرنا۔ الرجل: کونکے سے منہ کالا کرنا۔

المراة: طلاق کے بعد منہ کے کپڑے دینا۔

أَحَمَّهُ: اللہ: بخار میں مبتلا کرنا۔ أَحَمَّ الشئ: قریب ہونا۔ المكان: بہت بخار والی جگہ ہونا۔ الماء: گرم کرنا۔ اللہ له كَذَا: مقدر کرنا۔ الشئ: کالا کرنا۔ الامور:

فلانا: غم میں ڈالنا۔

تَحَمَّمٌ: کالا ہونا۔

إِحْتَمَمٌ: تمکین ہونا۔ غم کی وجہ سے نہ سونا۔ العين: بغیر روڑ کے بیدار رہنا۔

استَحَمَمَ: پانی سے غسل کرنا۔ حمام میں داخل ہونا۔ بیدار والا۔

الحَمَمُ: حَمَمٌ الظَّهْرِيَّةُ: دوپہر کی سخت گرمی۔ کہا جاتا ہے "مَثَلَهُ حَمَمٌ عَنْ ذَلِكَ اَوْ مَثَلَهُ" اس کے لیے اس سے کوئی چارہ نہیں۔ حَمَمٌ الشئ و (حَمَمٌ) چیز کا بڑا حصہ۔

الحَمَمِي: بخار حج حَمَائِمَات۔

الحَمَمَةُ: گرم پانی کا چشمہ۔

الحَمَمَةُ: سیاہی۔ سبزی اور سیاہی کے درمیان رنگ۔ بخار۔ ہر مقدر و لعیلیٰ شدہ چیز۔ اور اسی سے ہے "حَمَمَةُ الْفِرَاقِ" کہا جاتا ہے "عجلت بنا دینکم حَمَمَةُ الْفِرَاقِ" مقدر شدہ فراق لے تمہاری مجلس کے ساتھ جلدی کی۔ حج حَمَمٌ و حمام۔

الحَمَمُ: حَمَمَةُ كِي حَمَمٌ: کوئلہ۔ راکھ۔ ہر وہ چیز جو آگ میں جل جائے۔ واحد (حَمَمَةٌ) الجحمة: موت۔ بیدار۔

الحَمَامِ: کبوتر۔ واحد (حَمَامَةٌ) اور کہا گیا ہے کہ حمامة کا اطلاق زرد مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔

اندر نہیں ہیں۔

تَحَلَّى وَاخْلَوْلَى وَاِسْتَحَلَّى: الشئ: بیٹھا پانا۔ وَاخْلَوْلَى الشئ: بیٹھا ہونا۔

تَحَالَى: حلاوت کا ہر کرنا۔

الْخُلُو: بیٹھا۔ لذیذ۔ خوشگوار۔ خوبصورت۔

الْخُلُوَانُ: دلال و کاہن کی اجرت۔ مہربانہ۔

الْحَلَاةُ وَاَلْحَلَاةُ وَاَلْحَلَاةُ: مِنَ الْقَفَاءِ: گدی کا درمیانی حصہ۔ حج حَلَاوِي۔

الْحَلَاوَةُ وَاَلْحَلَاوِي: حلوا۔ بیٹھا۔ میوہ۔ حج حَلَاوِي۔

الْحَلَاوِي: حلوا فروش۔ حلوا ہانے والا۔

الْحَلَاوِيُّ: مِنَ الرِّجَالِ: دیکھنے میں اچھا معلوم ہونے والا۔

الْحَلِي: لذیذ اور بیٹھا۔ نالائق حلیتہ:

حَلَى (ض) حَلَيْتَا: المراة: عورت کیلئے زیور بنانا۔ آراستہ کرنا۔

حَلَيْتُ (س) حَلَيْتَا: المراة: زیور پہننا۔ صفت (حال و خالیتہ) حج حَوَالِ: کہا جاتا ہے "شجرۃ حَالِيَّة" پتے والا پھل دار درخت۔

حَلِي: منہ بخیر۔ خیر و منفعت پہنچانا۔

حَلَى حَلَيْتَا: المراة: زیور پہنانا یا زیور بنانا۔ و حَلَى الشئ: آراستہ کرنا۔

تَحَلَّى: آراستہ ہونا یا زیور پہننا۔

الحَلَى: پھنسیاں جو بچوں کے منہ میں لٹکتی ہیں۔

الحَلَى: حج حَلِيٌّ و حَلِيٌّ و (الجَلِيَّة) حج جَلِي و حَلِي (غلاف قیاس) زیور۔ جلیتہ الانسان: انسان سے جو رنگ اور ہیئت دکھائی دے۔

الحَلِي: خشک۔

حَمَم (ن) حَمَمًا: التَّنَوُّرُ: گرم کرنا۔

الشحمة: بکھلانا۔ الماء: گرم کرنا۔

الارحمان: جلدی کرنا۔ حَمَمٌ اللہ له كَذَا: مقدر کرنا۔ الامور فلانا: غم میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "حَمَمٌ حَمَمَهُ" اس نے اس کے ساتھ اس جیسا قصد کیا۔

حَمَمٌ الامور: فیصلہ کیا جانا۔ الشئ:

کچھ نکالنا
 حَمِيْمٌ (س) حَمًا وَحَمًا. الماء: پانی میں کچھ
 ملی ہوئی ہوتی ہے۔ صفت: حَمِيْمٌ۔
 أحمًا. البز: کنوئیں میں کچھ ڈالنا۔
 الحَمَمُ ء والحَمَمُ. والحَمُو والحَمَا
 بلا همزة: عورت کا سر۔ شوہر کی جانب سے
 عورت کا رشتہ دار جیسے دیور۔ جیٹھ۔ سر۔
 الحَمَا والحَمَاءة: کچھ۔
 حَمَمَةٌ (ض) حَمَمًا. اللہ علیہ:
 حَمِيْتٌ (س) حَمَمًا. الجوزُ وغیرہ:
 اخروٹ وغیرہ کا ثراب ہوتا۔
 حَمَمٌ (ک) حَمُوْمَةٌ. اليوم: دن کا سخت
 گرم ہوتا۔
 تَحَمَّتْ. اللون او الطغَم: رنگ یا مزہ
 صاف اور خالص ہوتا۔
 الحَمَمْتُ. -ہ. يؤم حَمَمٌ: سخت گرم دن۔
 تمر (حَمَمٌ و حَامِيْتٌ) بہت شیشی کھجور۔
 الحَمِيْمِيْتُ. مِن اللون او الطعم: خالص و
 صاف رنگ یا مزہ۔ کہا جاتا ہے "تمر حَمِيْمٌ و
 عَمَلٌ حَمِيْمٌ" اتنے رنگ والی کھجور۔ خالص
 شد۔ غَضَبٌ حَمِيْمٌ: سخت غصہ۔
 الحَمِيْمِيْتُ: بال دار ملک جس میں کبھی شدید یا
 زحمن کا تیل رکھتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ
 حَمِيْمٌ وہ ملک ہے جس میں بال نہ ہوں۔
 حَمَمَتِ. العين: آنکھ کا اندر کو دھس جانا۔
 حَمَجُ الوجْه: چہرہ کا غصہ وغیرہ سے بدلنا۔
 حَمَجُ اليه: تیز نظر سے دیکھنا۔ عینہ:
 گھور کر دیکھنا۔
 الحَمُوْجُ: ہرن وغیرہ کا چھوٹا بچہ۔
 حَمَمٌ و حَمَمَةٌ. البردون او الفرس:
 ہنسانہ۔ حَمَمٌ حَمَمٌ: کالا ہونا۔
 الحَمَاجِمُ: چڑے سے کا پودینہ۔ واحد
 (حَمَاجِمَةٌ)
 الحَمَجِمُ والحَمَمَجِمُ. ایک قسم کا پرندہ گاؤ
 ڈبان۔ واحد (حَمَمَجِمٌ و حَمَمَجِمَةٌ)
 حَمِيْدَةٌ (س) حَمَمٌ و حَمَمَةٌ و حَمِيْمَةٌ و
 مَحَمَمَةٌ و مَحَمِيْمَةٌ۔ فضیلت کی بنا پر تعریف کرنا
 ہ۔ علی امر: بدلہ دینا۔ الشئُ:

قابل تعریف ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "حَمَمْتُ اليك
 اللہ" یعنی تم سے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہوں یا
 تیرا شکر یہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اللہ کی
 نعمتوں کا بھی۔
 حَمَمْتُ. اللہ: بار بار تعریف کرنا اور الحمد للہ کہنا۔
 أحمَدُ. قابل تعریف کام کرنا۔ الشئُ:
 قابل تعریف ہونا۔ الشئُ: قابل تعریف ہونا
 ہ۔ فعل پر راضی ہونا۔ تعریف کا اقرار ظاہر
 ہوتا۔
 تَحَمَمْتُ. بالشئ علی فلان: احسان جانا۔ اور
 کہا جاتا ہے "بِتَحَمَمْتُ الناسَ بِفَضْلِهِ" یعنی ان
 کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ وہ محمود ہے۔
 اسْتَحَمَمْتُ. اللہ الی خلقہ۔ مخلوق کو انعام و
 احسان کر کے اپنی حمد کی جانب بلانا۔
 أحمَدُ. -ہ۔ تعریف۔ تعریف کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے
 "رجل حَمَمٌ و امرؤة حَمَمَةٌ" تعریف کیا ہوا مرد
 تعریف کی ہوئی عورت۔
 حَمَاد. لہ: بمعنی حمد اللہ۔
 الحَمَادُ. عاقبت۔ انتہائی کوشش۔ کہا جاتا ہے
 "حَمَادٌك أَوْ حَمَادٌك أَنْ تَفْعَلَ كَذَا"
 تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔
 الحَمَادُ والحَمَمَةُ. بہت تعریف کرنے والا۔
 المَحَمَمَةُ. قابل تعریف کام۔ ج مَحَامِدُ۔
 المَحَمَمَةُ. بہت عمدہ نصلتوں والا۔
 نبی کریم ﷺ کا اسم گرامی۔
 الحَمِيْمِدُ والحَمُوْدُ۔ تعریف کرنے والا۔
 تعریف کیا ہوا۔ مؤنث حَمِيْمَةٌ۔
 الحَمَمَةُ. بہت تعریف کرنے والا۔
 حَمَمَةُ النار: آگ کے شعلہ کی آواز۔
 حَمَمٌ. الحمد للہ کہنا۔
 الحَمَامِذِيُّ. گمراہی کی سختی۔
 حَمِيْمٌ (س) حَمَمًا۔ الفرس: بد ہنسی والا ہونا یا
 بد دیوار منہ والا ہونا۔ صفت (حَمِيْمٌ)۔
 الرجلُ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔
 حَمَمٌ. الجلد: بڑی دماغت دینا۔ الشئُ: سرخ
 رنگنا۔ ہ۔ کسی کو اسے گدھے کہنا۔
 أحمَرُ. سرخ بچہ والا ہونا۔ الدابة: چارہ
 دینا یہاں تک کہ خُسر بد دیوار ہو جائے۔

حَقَق

والمُحْمَض) کثرت سے نمکین اور کڑوے
پودوں والی زمین۔

المُسْتَحْمَض: مِنَ اللَّبَنِ: دیر میں جیسے والا
دودھ۔

حَمَطَةٌ (ض) حَمَطًا: چمکا اتارنا۔

حَمَطُ الْكُرْمِ: انگور پر درخت کا سایہ کرنا۔

السَّيِّءُ: چھوٹا کرنا _____ الرَّجُلُ: ہلکا

مارنا۔ اور اسی سے شکل ہے "إِذَا حَمَرْتُمْ فَلَا

تُحَمِّطُ" جب بارو تو ہلکا مت مارو۔

الْحَمَاطَةُ: گلے کی سوزش۔ انجیر کے مشابہ

ایک درخت اور بقول بعض گولر۔ دل کا نطفہ۔

وَلِ كَاغِرٍ: حِجَّ حَمَاطٍ وَحَمَاطٍ۔

حَمَطَظَرُ: القِرْبَةُ: بھرتا _____ القوس: چلہ

کھینچنا۔

حَمَطَةٌ (ن) حَمَطًا: چمچنا۔

حَمَطَلٌ: اندر آئے چمکانا۔

الْحَمَطَلُ: اندر آئے۔

حَمِيقٌ (س) وَحَمِيقٌ (ك) حَمِيقًا وَحَمِيقًا

حَمَاقَةً: یوقوف ہونا۔ صفت (أَحْمَقُ) مَوْتٌ

حَمَقَاءُ: حِجَّ حَمِيقٌ وَحَمِيقٌ وَحَمِيقٌ وَحَمَاقٌ

وَ حَمَاقِيٌّ وَ حَمَاقِيٌّ: (ك) حَمَاقَةُ السُّوقِ:

منڈا پڑنا۔

حَمَقَةٌ: یوقوف کرنا۔

أَحْمَقَةٌ: یوقوف پانا۔ أَحْمَقَتِ الْمَرْأَةُ:

یوقوف بیچ چمکانا۔ صفت (مُحَمِّقٌ وَمُحَمِّقَةٌ)

حَامِقَةٌ: یوقوفی میں مدد دینا۔

تَحَامَقٌ وَتَحَمَّقٌ: تکلف یوقوف کرنا۔

إِنْحَمَقَ: یوقوف ہونا _____ السُّوقِ: منڈا

پڑنا _____ الثَّوْبِ: بوسیدہ ہونا۔

إِسْتَحَمَقَ: یوقوف ہونا _____ ه: یوقوف

کہنا۔

الْحَمِيقُ: نہ۔ کم عقلی۔ یوقوفی۔ شراب۔ نَوْمَةٌ

الْحَمِيقُ: ظہر کے بعد کی نیند۔

الْحَمِيقُ: یوقوف۔ کم راڑھی والا۔

الْحَمَاقُ وَالْحَمَاقُ وَالْحَمِيقُ

وَالْحَمِيقِيُّ وَالْحَمِيقَاءُ: ایک بیماری جو بچک

کے مشابہ ہوتی ہے۔

الْبَقْلَةُ الْحَمَفَاءُ وَبَقْلَةُ الْحَمَفَاءِ: خرف کا

حَمَل

سَاگ۔

الْحَمُولَةُ وَالْحَمِيْقَةُ وَالْأَحْمُولَةُ: بہت

بیوقوفی والا۔

الْمُحَمِّقَاتُ: وہ راتیں جن میں اول سے آخر

تک چاندنی رہے۔

الْمِحْمَاقُ: وہ عورت جس کو بیوقوف بچے جتنے

کی عادت ہو۔

الْمُحْمَقُوقُ: حاتم بیماری والا۔

تَحَمَّقَسُ: غمیٹ ہو گیا ہونا۔

الْحَمَاقِيْسُ: سختیاں۔ بلائیں۔

حَمَكٌ (س) حَمَكًا: ہی الدلالة: رہنمائی

میں چلنے رہنا۔

الْحَمَكُ: چھوٹی دردی چیزیں۔ معمولی لوگ۔

بچے۔ واحد (حَمَكَةٌ)

حَمَلٌ (ض) حَمَلًا وَحَمَلَانًا: الشَّيْءُ عَلَى

ظَهْرِهِ: اٹھانا _____ الغَضَبُ: غصہ ظاہر کرنا

_____ عَلَى نَفْسِهِ فِي السَّبْرِ: چلنے میں مشقت

اٹھانا۔ حَمَلَهُ عَلَى الْأَمْرِ: اگسا۔ برا گیند کرنا۔

حَمَلُ عَنهُ: بردبار ہونا _____ الشَّيْءُ عَلَى

الْآخِرِ: ایک کا حکم دوسرے پر لگانا _____

الْمَرْأَةُ: حاملہ ہونا _____ الشَّجْرَةُ: پھل دار

ہونا _____ الْقُرْآنُ: یاد کرنا _____ الْعِلْمُ:

روایت کرنا۔ نقل کرنا۔ (_____ حَمَلَةً) فِي

الْحَرْبِ عَلَيْهِمْ: حملہ کرنا (_____ حَمَالَةً) بِهِ:

ضامن ہونا۔

حَمَلَةٌ وَأَحْمَلَةٌ: الْجَمَلُ: بوجھ اٹھانے میں

مدد کرنا۔

حَمَلَةٌ تَحْمِلُهَا وَحَمَلَانًا: الشَّيْءُ: اٹھوانا۔

تَحَمَّلَهُ تَحْمَلًا وَتَحْمَلَانًا: اٹھانا _____

الْأَمْرُ: برداشت کرنا _____ الْقَوْمُ: کوچ کرنا

_____ الرَّجُلُ: بہادر بننا۔

تَحَامَلَ: ہی الامر و بالامر: باوجود مشقت

کے اپنے ذمہ لینا _____ عَلَى فُلَانٍ: ظلم کرنا۔

طاعت سے زیادہ کام کو کرنا _____ عَنهُ: اعراض

کرنا۔

أَلَيْهَ: متوجہ ہونا _____ الشَّيْخُ فِي مَشْيِهِ:

چلنے میں گرا ہوا ہونا _____ عَلَى نَفْسِهِ: باوجود

مشقت کے برداشت کرنا۔

حَمَل

۱۷۶

إِنْ حَمَلَ عَلَيْهِ: اگسا جانا۔

إِحْتَمَلَ: الشَّيْءُ: اٹھانا _____ الْأَمْرُ: کسی

امر کی طاقت رکھنا اور اس پر صبر کرنا _____

مَا كَانَ مِنْهُ: چشم پوشی کرنا _____ عَافَ كَرْنَا

_____ الصَّبِيْقَةَ: شہرا دار کرنا۔

أَحْتَمَلَ: غصبتاک ہونا _____ لَوْنُهُ: رنگ

پدانا۔

إِسْتَحَمَلَ: اٹھانے کی طاقت رکھنا۔

_____ فَلَانًا: اٹھانے کو کرنا۔

الْحَمَلُ: نہ۔ بیٹ کا بچہ۔ پھل۔ حِجَّ حَمَالٍ وَ

أَحْمَالٍ وَحُمُولٍ۔

الْحَمَلُ: بوجھ۔ حِجَّ أَحْمَالٍ وَ حُمُولَةٍ۔

الْحَمَلُ: ہودج یا ہودہ والے اونٹ۔ حِجَّ

حُمُولٍ۔

الْحَمَلُ: بکری کا بچہ۔ حِجَّ حَمَلَانٍ وَأَحْمَالٍ۔

بہت پانی والا بادل۔ آسمان کے برسوں میں سے

ایک برج۔ لسان الْحَمَلُ: بارنگ (ایک دروا کا

نام)

الْحَمَلَةُ: نہ۔ ایک مرتبہ کا بوجھ۔ لڑائی کا حملہ۔

الْحَمَلَةُ وَالْحَمَلَةُ: ایک جگہ سے دوسری

جگہ منتقل ہونا۔

الْحَامِلُ: قا۔ حِجَّ حَمَلَةٍ۔ حَمَلَةُ الْقُرْآنُ:

قرآن کے یاد کرنے والے۔ قرآن کی روایت

کرنے والے۔ مَوْتٌ حَامِلَةٌ: اَمْرًا حَامِلًا وَ

حَامِلَةٌ: بیٹ والی عورت۔ حِجَّ حَوَامِلٍ۔

الْحَامِلَةُ: انگور وغیرہ اٹھانے کی ٹوکری۔

الْحَوَامِلُ: قدم۔ ہاتھ اور قدم کے بیٹھے۔

الْحَمَالُ: بہت۔ تاوان۔ حِجَّ حَمَلٍ۔

الْحَمَالَةُ: خنابت۔ ویت۔ تاوان۔

الْحَمَالَةُ وَالْحَمِيْقَةُ: حِجَّ حَمَائِلٍ وَ

(الْمِحْمَلُ) حِجَّ مَحَامِلٍ: تلوار کا پتلا۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ حَمِيْقَةٌ عَلَيْنَا" وہ ہمارے ذمہ بار ہے۔

الْحَمَالَةُ: مزدور کا پیشہ۔

الْحَمَالُ: قلی مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا۔ عوام

اس کو عقال کہتے ہیں۔ الْحَمَالُ: جزدوران۔ فصیح

لفظ الْقِمَطَرُ ہے۔

الْحَمُولُ: صابر۔ بردبار۔ حَمُولُ الْبَيْخُرِ:

دیباچی باتا۔

اُونٹ کہ جس کے بہت سے بچے ہو گئے ہوں تو اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ جہاں چاہے چلے اور اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے اور نہ اس کے بال کھرتے تھے۔

الْحَمِيَّةُ - وہ شخص جو ظلم برداشت نہ کر سکے۔ ہر محفوظ کی ہوئی چیز۔ مریض جو معجزہ جلد سے روک دیا گیا ہو۔

الْحَامِيَّةُ - الحامی کا مؤنث۔ حمایت کرنے والا (اس صورت میں تا مبالغہ کے لیے ہے) جماعت جو حمایت کرنے والی ہو۔ جِ حَوَائِي - الحامیة: پایہ دیکھان۔ پھر جس سے کنوئیں کا من بنایا جائے۔

حَقٌّ (ض) حَقِيْطًا، خوشی یا غم سے آواز نکالنا القوم: کمان سے آواز نکالنا اَلَيْه: مشتاق ہونا (حَقَّةٌ وَحَقَاتُنَا عَلَيْهِ: مہربان ہونا۔ صفت (حَقْنُون)

حَقَّةٌ (ن) حَقَاتًا - پھیرنا۔ باز رکھنا۔ تم کہتے ہو "حَقْنُ عَمِي شَوْكٌ" مجھ سے اپنے شر کو روک لو۔ حَقْنُ الشَّجَرِ: شگوفہ دار ہونا۔

أَحَقُّ - القوم: کمان سے آواز نکالنا الرجل: غلٹی کرنا۔ فَحَقْنُ عَلَيْهِ: رحم کرنا۔

حَقَانٌ وَاسْتَحَقَّنَ - اَلَيْه: مشتاق ہونا۔ اسْتَحَقَّنَ الشَّوْقُ فَلَانًا: طرب کو بڑھا کرنا۔ الحان: نا۔ بہت خوش ہونے والا۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُ حَانَةٌ وَلَا آتَهُ" اس کے پاس نہ اونٹنی ہے نہ بکری۔

التحنان: رحمت و مہربانی۔ الجحج: جتوں کا ایک گروہ۔

الحنآن: روزی۔ برکت۔ دل کی نرمی۔ کہا جاتا ہے "حنانیک وحنانک یارب" یعنی اے پروردگار تیرے رحم کی التجا کرتا ہوں۔ "وَحَنَانُ اللَّهِ" اللہ کی پناہ۔

الحنآن: مہربان۔ رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک۔ کسی چیز کا مشتاق۔ مہم حنآن: آواز نکالنے والی کلن۔ ظریفی حنآن: واضح راستہ۔

الجحآن: مہندی۔

حُمُوَّةُ - الالم۔ بور کی شدت و تیزی۔

حُمِيٌّ (ض) حَمِيًّا وَ حَمِيَّةٌ وَ حَمِيَّةٌ وَ حَمِيَّةٌ الشَّقِيٌّ مِنَ النَّاسِ: روکنا۔ بچانا۔ (حَمِيَّةٌ) المریض مایضرفو عمایضرفو: پرہیز کرنا۔

حَمِيٌّ (س) حَمِيَّةٌ وَ حَمِيَّةٌ - مِنَ الشَّقِيِّ: کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا۔

حَمِيٌّ (س) حَمِيًّا وَ حَمِيًّا وَ حُمُوًّا - النَّازِ: تیز گرم ہونا۔ علیہ: غھبناک ہونا۔

حَامِيٌّ مُحَامَاةً وَ حَمَاةً: عنہ: حمایت کرنا۔ مدافعت کرنا۔ علی الضیف: اچھی طرح میزبانی کرنا۔

أَحْمِيٌّ إِحْمَاءً - المکان: حمی بنانا۔ التحلید: بہت گرم کرنا۔

تَحْمِيٌّ وَ إِحْتَمِيٌّ - المریض: روکنا۔ پرہیز کرنا۔ احتمی منہ: بچنا۔

تَحَامِيٌّ: بچنا۔ پرہیز کرنا۔ إِحْتَمَمِيٌّ إِحْمِيْمَاءً: کالا ہونا۔

الحمی: چراگاہ کہ جس میں دوسروں کے جانور کو چرانے کی ممانعت ہو۔ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے۔

حُمِيٌّ - الشمس: آفتاب کی گرمی۔ الجماء: بھائی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "ہو حَمَاءٌ لِّكَ" وہ تمہاری طرف سے ندیر ہے۔

الجُمِيَّةُ: بھائی ہوئی چیز۔ پرہیز۔ کہا جاتا ہے "المَعْدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَ الْجُمِيَّةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ" مدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز روکی اصل ہے۔

الجُمِيَّةُ: نفرت۔ مزوت۔ نفرت۔ العُشْمِيٌّ: بخار۔ ج حُمِيَّاتٍ۔

الْحُمِيَّةُ: عُقْرَةُ كَابِتْرَانِي جُوش - کہا جاتا ہے "لَا تَكَلِّمُهُ فِي حُمِيَّةٍ غَضَبِيَّةٍ" اس سے عُقْرَةُ كَابِتْرَانِي جُوش کی حالت میں گفتگو مت کرو۔ شراب کی تیزی۔ شراب۔ مین کل شی: شدت و تیزی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ شَدِيدُ الْحُمِيَّةِ" وہ بہت خوددار ہے۔

الْحُمَّةُ: زہر۔ ڈنک۔ ج حُمَاتٍ وَ حُمِيٌّ - حُمَّةُ البود: مہروی کی شدت۔

العَامِيٌّ: نا۔ شیر۔ کنا۔ ج حُمَاةً وَ حَامِيَّةً - نر

الْحَمُوَّةُ - بار برداری کا جانور۔ ج حَمُوَاتٍ الْحَمْلَانُ - بار برداری کا جانور جو کسی کو بیہ کیا جائے۔ مزور کی اجرت۔

الْحَمِيْلُ - اٹھایا ہوا۔ اجنبی۔ ضامن۔ ہیٹ کا پتہ۔ تسم۔ سیلاب کا کوڑا کرکٹ۔ اٹھایا ہوا پتہ جس کی کوئی پرورش کرے۔ مند بولا بیٹا۔

الْحَامُوَّةُ - تیز بارش کے وقت نالے میں اُٹھنے والا پانی (مولد ج حَوَائِيْلُ)۔

الْمَحْمِيْلُ - وہ چیز جس میں کوئی چیز اٹھائی جائے۔ ہر وہ ج محامیل۔

الْمَحْمُوْلُ - ضم۔ الْمَحْمُوْلُ وَ الْمَوْضُوْعُ عِنْدَ الْمُنْطَقِيِّينَ: اصطلاح علم منطق میں قضیہ حملیہ کے دونوں اجزاء جو نحووں کے نزدیک بنزولہ مند و مستدالیہ کے ہیں۔ جیسے زیدٌ کریمٌ میں زید موضوع ہے اور کریم محمول۔

خَمْلُجُ - الحبل - مضبوط بنانا۔ الجُمْلَاجُ وَ الخُمْلُوجُ - سناروں کی دھونگی۔ گائے کا سینگ۔ ج خَمَالِيْنُجُ۔

خَمْلَقٌ - آنکھیں پھاڑ کر تیز نظر سے دیکھنا۔ خَمْلَاقِيٌّ الْعَيْنِ وَ جَمَلًا قُهَا وَ خَمْلَقُو قُهَا - پتوں کا اندرونی حصہ۔ ج خَمَالِيْقُ۔

الْحَمْنُ وَ الْحَمْنَانُ - چھوٹی چیچریاں۔ واحد۔ حَمْنَةٌ وَ حَمْنَانَةٌ - اصمعی نے کہا کہ چیچری جب بہت ہی چھوٹی ہوتی تو اس کو مقامہ کہتے ہیں۔ پھر حَمْنَانُ پھر فَرَادٍ پھر حَمْلَةٌ پھر عَلٌّ وَ طَلْحُ۔

ارض (مَحْمَنَةٌ وَ مَحْمِيَّةٌ) کثرت سے چھوٹی چیچریوں والی زمین۔ الخمو و الحماء و الخمو و الحمم: خسر۔

خاندکی جانب سے عورت کا قریبی رشتہ دار۔ یہ اسمائے ست کبرہ میں سے ہے اس کا اعراب حالتِ رفعی میں وا اور حالتِ نصبی میں الف اور حالتِ جزی میں یا سے آتا ہے اور یہ ہمیشہ مضاف مستعمل ہوتا ہے۔ تشبیہ حموان و حمان ج۔

احماء۔ حماءة - الرجل: خوش دامن۔ حماءة المرأة: ساس۔ ج حَمَوَاتٍ - الخماء: پتلی کا عطل۔

حَقُّو - الشمس: آفتاب کی گرمی۔

<p>چلنا۔ الحَنَكَلَيْس۔ ایک قسم کی پھلی۔ نضج عربی الجَبْرِی ہے۔</p>	<p>اور جب غمبناک ہوتا ہے تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ ح حَنَائِش و حَنَائِش۔ الحنیف۔ ذبلا پتلا۔</p>	<p>ہو۔ الحِنَطِيُّ۔ پست قد۔ الجِنَطَاءُ و الجِنَطَاءُ و جِنَطَاءُ۔ بڑے پیٹ والا۔ پست قد۔</p>
<p>حَنَان (ان) حَنَوٌ و حَنِيٌّ (ض) حِنَانِيَّةٌ۔ الشَّيْءُ: موثرًا۔ حَنَانٌ الحَيَّةُ ای القَوْسُ: کمان بنا۔</p>	<p>حَنِيْقٌ (س) حَنَقًا۔ منہ و علیہ: سخت غمبناک ہونا۔ صفت (حَنِیق و حَنِیق) ح حَنَقٌ اہل حَنَقٌ و محالینق: ہوئے اُدث۔</p>	<p>الحَنَطْرُ نُوْرَةٌ۔ یاد۔ الحَنَطْبَاءُ و الحَنَطْبَاءُ۔ نرڈی۔ زرگمیرا۔ الحَنَطْلُوْبُ۔ بڑے ڈیل ڈول کی ناکارہ عورت۔</p>
<p>حَنَان (ان) حَنَوٌ و آخَنِيٌّ علیہ: نائل ہونا۔ حَنِيٌّ نَحِيْبَةٌ۔ الشَّيْءُ: موثرًا۔ تَحَنِيٌّ۔ ٹیڑھا ہونا _____ علیہ: ہمریلی کرنا۔ إِنْحَنِيٌّ۔ ٹیڑھا ہونا۔ مڑنا۔</p>	<p>أَحْنَفَةٌ۔ غمبناک بنا۔ أَحْنَفٌ الدَّابَّةُ۔ دلا کرنا۔ أَحْنَقُ الرَّجُلُ: سخت کینہ رکھنا۔ إِحْنَقٌ۔ موٹا ہونا۔</p>	<p>الجِنَطَابُ۔ پست قد بدخو۔ الجِنَطَلُ۔ اندرائن جو کڑوا ہونے میں ضرب الخلل ہے۔</p>
<p>الحَيَانِيَّةُ۔ ج الحَوَالِي و (الحَيَانَةُ و الحَيَانُوْتُ) دکان۔ مالک دکان۔ الحَيَانِيَّةُ: بکری جس کی گردن بغیر کسی علت کے مڑی ہوئی ہو۔</p>	<p>الحَنَقُ و الحَنِیق۔ سخت غم۔ الحَنَقَةُ۔ ایک قسم کا پرنڈیا تیز۔ حَنَكٌ (ان ض) حَنَكًا۔ الشَّيْءُ: کھتا۔ _____ وَاحْتَنَكَ۔ الغرض۔ گھوڑے کے مُد میں رستی لگانا۔</p>	<p>حَنَطَلْتُ۔ الشجرَةُ: کڑوے پھل والا ہونا۔ حَنَفٌ۔ (ض) حَنَفًا۔ جھکتا _____ رجلہ: پاؤں ٹیڑھا کرنا۔</p>
<p>_____ ہو۔ الحَيَانُوِيُّ و الحَيَانِيٌّ سب سے لمبی پھلی۔ الحَيَانِيَّةُ۔ شراب۔ الحَيَانِيٌّ کامُوْنْتُ۔ شراب پیچنے والے۔</p>	<p>حَنَكٌ و حَنَكٌ۔ چاکر زمہ بنا۔ حَنَكٌ (ن ض) حَنَكًا و حَنَكًا و حَنَكٌ و أَحْنَكٌ و أَحْنَكٌ۔ الدهرُ الرَّجُلُ: نا تجربہ کار بنا رہنا۔ صفت (حَنِیق) ج حُنُكٌ۔ حَنَكٌ العَصِيٌّ: مہذب بنا۔</p>	<p>حَنِيفٌ (س) حَنَفًا و حَنَفٌ (ک) حَنَافَةٌ: ٹیڑھے پاؤں والا ہونا۔ صفت (أَحْنَفٌ) حَنَفَةٌ۔ ٹیڑھے پاؤں والا کرنا۔ تَحَنَفٌ۔ حشیمی ہونا۔ حَنِيٌّ ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَافِعِيٌّ تَحَنَفٌ" شافعی حنفی ہو گیا _____ الیہ: نائل ہونا۔</p>
<p>ج حَنَوٌ و حَنِيٌّ: زین کا اگلا اور پچھلا حصہ ج حَنَاءٌ و حَنِيٌّ و حَنِيٌّ و أَحْنَاءُ الأَمْوَالِ: تشابہات امور۔</p>	<p>تَحَنَكَ۔ گڑی کو ٹھوڑی کے نیچے سے لاکر باندھنا۔ إِحْتَنَكَ۔ الجِرَادُ الاَرْضُ: کہا کر صاف کر رہا۔ احْتَنَكَ: غالب ہونا۔ إِسْتَحْنَكَ۔ کم خوراک کے بعد زیادہ خوراک والا ہونا۔</p>	<p>الحَنَفَاءُ ٹیڑھا پاؤں۔ کمان۔ استرا۔ گرجن۔ کچرا۔ الحَنِيفِيٌّ۔ سیدھا۔ اسلام کے احکام پر چلنے والا۔ سیدنا ابراہیم <small>عليه السلام</small> کے دین کا شیخ۔ موحد۔ کلیات میں ہے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں لفظ (حنیف) کے ساتھ ﴿مسلم﴾ ہے وہاں حابی مُراد ہے جیسے ﴿ولیکن کان حَنِيفًا مَنصَلِمًا﴾ اور جہاں بغیر لفظ (مسلم) کے تھا ﴿حنیف﴾ ہے وہاں ﴿مسلم﴾ مراد ہے جیسے ﴿حَنِيفًا لِلدِّیْنِ﴾ ج حَنَفَاءُ۔ ادیانِ باطلہ کو چھوڑ کر دین حق کو اختیار کرنے والا۔</p>
<p>ج حَنَاءٌ و حَنِيٌّ و حَنِيٌّ و أَحْنَاءُ الأَمْوَالِ: تشابہات امور۔</p>	<p>إِحْتَنَكَ۔ الجِرَادُ الاَرْضُ: کہا کر صاف کر رہا۔ احْتَنَكَ: غالب ہونا۔ إِسْتَحْنَكَ۔ کم خوراک کے بعد زیادہ خوراک والا ہونا۔</p>	<p>الحَنِيفِيٌّ۔ امام ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے مذہب کا تابع۔ ج أَحْنَافٌ و حَنَفِيَّةٌ۔ الحَنِيفِيَّةُ۔ فی الاسلام او الدین: اسلام کی طرف میلان اور دین کے ساتھ تمسک۔</p>
<p>الحَيَّةُ۔ کمان _____ مِنْ البِنَاءِ: کمان کی مانند غم دار۔ ج حَنَائِيٌّ و حَنِیقٌ۔ الأَحْنِيٌّ۔ کبڑا۔ مَوْنْتُ حَنَوَاءُ۔ کہا جاتا ہے "فلان احسنی الناس ضلوعًا علیک" فلاں تمہارے اوپر لوگوں میں بہت مہربان ہے۔</p>	<p>الحَيَانِيكُ۔ نا۔ اَسْوَدُ حَيَانِيكٌ: سخت سیاہ۔ الحَنُكُ و الحَنُكُ و الحَنُكَةُ۔ تجرید۔ الحَنُكُ۔ تلو۔ ٹھوڑی۔ حَنَكٌ الغُرَابُ: کوسے کی چوڑی یا اس کی سیاہی۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ مِنْ حَنُكِ الغُرَابِ" کوسے کی چوڑی سے کالا۔ ج أَحْنَاكٌ۔ الحَنُكُ: وہ لوگ جو کسی دوسری جگہ چارہ کی تلاش میں جائیں۔ چھوٹے ٹیلے جہاں کے پتھر سفید اور نرم ہوں۔ واحد (حَنُكَةٌ)</p>	<p>الحَنِيفِيٌّ۔ امام ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے مذہب کا تابع۔ ج أَحْنَافٌ و حَنَفِيَّةٌ۔ الحَنِيفِيَّةُ۔ فی الاسلام او الدین: اسلام کی طرف میلان اور دین کے ساتھ تمسک۔</p>
<p>الحَيَّةُ۔ کمان _____ مِنْ البِنَاءِ: کمان کی مانند غم دار۔ ج حَنَائِيٌّ و حَنِیقٌ۔ الأَحْنِيٌّ۔ کبڑا۔ مَوْنْتُ حَنَوَاءُ۔ کہا جاتا ہے "فلان احسنی الناس ضلوعًا علیک" فلاں تمہارے اوپر لوگوں میں بہت مہربان ہے۔</p>	<p>الحَيَانِيكُ۔ نا۔ اَسْوَدُ حَيَانِيكٌ: سخت سیاہ۔ الحَنُكُ و الحَنُكُ و الحَنُكَةُ۔ تجرید۔ الحَنُكُ۔ تلو۔ ٹھوڑی۔ حَنَكٌ الغُرَابُ: کوسے کی چوڑی یا اس کی سیاہی۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ مِنْ حَنُكِ الغُرَابِ" کوسے کی چوڑی سے کالا۔ ج أَحْنَاكٌ۔ الحَنُكُ: وہ لوگ جو کسی دوسری جگہ چارہ کی تلاش میں جائیں۔ چھوٹے ٹیلے جہاں کے پتھر سفید اور نرم ہوں۔ واحد (حَنُكَةٌ)</p>	<p>الحَنِيفِيٌّ۔ امام ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے مذہب کا تابع۔ ج أَحْنَافٌ و حَنَفِيَّةٌ۔ الحَنِيفِيَّةُ۔ فی الاسلام او الدین: اسلام کی طرف میلان اور دین کے ساتھ تمسک۔</p>
<p>الحَيَّةُ۔ کمان _____ مِنْ البِنَاءِ: کمان کی مانند غم دار۔ ج حَنَائِيٌّ و حَنِیقٌ۔ الأَحْنِيٌّ۔ کبڑا۔ مَوْنْتُ حَنَوَاءُ۔ کہا جاتا ہے "فلان احسنی الناس ضلوعًا علیک" فلاں تمہارے اوپر لوگوں میں بہت مہربان ہے۔</p>	<p>الحَيَانِيكُ۔ نا۔ اَسْوَدُ حَيَانِيكٌ: سخت سیاہ۔ الحَنُكُ و الحَنُكُ و الحَنُكَةُ۔ تجرید۔ الحَنُكُ۔ تلو۔ ٹھوڑی۔ حَنَكٌ الغُرَابُ: کوسے کی چوڑی یا اس کی سیاہی۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ مِنْ حَنُكِ الغُرَابِ" کوسے کی چوڑی سے کالا۔ ج أَحْنَاكٌ۔ الحَنُكُ: وہ لوگ جو کسی دوسری جگہ چارہ کی تلاش میں جائیں۔ چھوٹے ٹیلے جہاں کے پتھر سفید اور نرم ہوں۔ واحد (حَنُكَةٌ)</p>	<p>الحَنِيفِيٌّ۔ امام ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے مذہب کا تابع۔ ج أَحْنَافٌ و حَنَفِيَّةٌ۔ الحَنِيفِيَّةُ۔ فی الاسلام او الدین: اسلام کی طرف میلان اور دین کے ساتھ تمسک۔</p>
<p>الحَيَّةُ۔ کمان _____ مِنْ البِنَاءِ: کمان کی مانند غم دار۔ ج حَنَائِيٌّ و حَنِیقٌ۔ الأَحْنِيٌّ۔ کبڑا۔ مَوْنْتُ حَنَوَاءُ۔ کہا جاتا ہے "فلان احسنی الناس ضلوعًا علیک" فلاں تمہارے اوپر لوگوں میں بہت مہربان ہے۔</p>	<p>الحَيَانِيكُ۔ نا۔ اَسْوَدُ حَيَانِيكٌ: سخت سیاہ۔ الحَنُكُ و الحَنُكُ و الحَنُكَةُ۔ تجرید۔ الحَنُكُ۔ تلو۔ ٹھوڑی۔ حَنَكٌ الغُرَابُ: کوسے کی چوڑی یا اس کی سیاہی۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ مِنْ حَنُكِ الغُرَابِ" کوسے کی چوڑی سے کالا۔ ج أَحْنَاكٌ۔ الحَنُكُ: وہ لوگ جو کسی دوسری جگہ چارہ کی تلاش میں جائیں۔ چھوٹے ٹیلے جہاں کے پتھر سفید اور نرم ہوں۔ واحد (حَنُكَةٌ)</p>	<p>الحَنِيفِيٌّ۔ امام ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے مذہب کا تابع۔ ج أَحْنَافٌ و حَنَفِيَّةٌ۔ الحَنِيفِيَّةُ۔ فی الاسلام او الدین: اسلام کی طرف میلان اور دین کے ساتھ تمسک۔</p>
<p>الحَيَّةُ۔ کمان _____ مِنْ البِنَاءِ: کمان کی مانند غم دار۔ ج حَنَائِيٌّ و حَنِیقٌ۔ الأَحْنِيٌّ۔ کبڑا۔ مَوْنْتُ حَنَوَاءُ۔ کہا جاتا ہے "فلان احسنی الناس ضلوعًا علیک" فلاں تمہارے اوپر لوگوں میں بہت مہربان ہے۔</p>	<p>الحَيَانِيكُ۔ نا۔ اَسْوَدُ حَيَانِيكٌ: سخت سیاہ۔ الحَنُكُ و الحَنُكُ و الحَنُكَةُ۔ تجرید۔ الحَنُكُ۔ تلو۔ ٹھوڑی۔ حَنَكٌ الغُرَابُ: کوسے کی چوڑی یا اس کی سیاہی۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ مِنْ حَنُكِ الغُرَابِ" کوسے کی چوڑی سے کالا۔ ج أَحْنَاكٌ۔ الحَنُكُ: وہ لوگ جو کسی دوسری جگہ چارہ کی تلاش میں جائیں۔ چھوٹے ٹیلے جہاں کے پتھر سفید اور نرم ہوں۔ واحد (حَنُكَةٌ)</p>	<p>الحَنِيفِيٌّ۔ امام ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے مذہب کا تابع۔ ج أَحْنَافٌ و حَنَفِيَّةٌ۔ الحَنِيفِيَّةُ۔ فی الاسلام او الدین: اسلام کی طرف میلان اور دین کے ساتھ تمسک۔</p>
<p>الحَيَّةُ۔ کمان _____ مِنْ البِنَاءِ: کمان کی مانند غم دار۔ ج حَنَائِيٌّ و حَنِیقٌ۔ الأَحْنِيٌّ۔ کبڑا۔ مَوْنْتُ حَنَوَاءُ۔ کہا جاتا ہے "فلان احسنی الناس ضلوعًا علیک" فلاں تمہارے اوپر لوگوں میں بہت مہربان ہے۔</p>	<p>الحَيَانِيكُ۔ نا۔ اَسْوَدُ حَيَانِيكٌ: سخت سیاہ۔ الحَنُكُ و الحَنُكُ و الحَنُكَةُ۔ تجرید۔ الحَنُكُ۔ تلو۔ ٹھوڑی۔ حَنَكٌ الغُرَابُ: کوسے کی چوڑی یا اس کی سیاہی۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ مِنْ حَنُكِ الغُرَابِ" کوسے کی چوڑی سے کالا۔ ج أَحْنَاكٌ۔ الحَنُكُ: وہ لوگ جو کسی دوسری جگہ چارہ کی تلاش میں جائیں۔ چھوٹے ٹیلے جہاں کے پتھر سفید اور نرم ہوں۔ واحد (حَنُكَةٌ)</p>	<p>الحَنِيفِيٌّ۔ امام ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے مذہب کا تابع۔ ج أَحْنَافٌ و حَنَفِيَّةٌ۔ الحَنِيفِيَّةُ۔ فی الاسلام او الدین: اسلام کی طرف میلان اور دین کے ساتھ تمسک۔</p>

کرنا۔ حَاوَرُ الشَّيْءِ : منہا پرنا۔ کہا جاتا ہے "حَاوَرُ بَعْدَ مَا كَانَتْ" زیادہ ہونے کے بعد گھٹ گیا۔ (بعوذ باللہ من الحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ) ہم زیادتی کے بعد نقصان سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔

حَوْرَتٌ (س) حَوْرًا۔ العَيْنُ : سفیدی اور سیاہی کا بہت سفید و سیاہ ہونا۔ صفت (حَوْرَاءُ)

حَوْرٌ۔ القَرَضُ : بیلن سے بیٹنا۔ الثَرِبُ : سفید کرنا۔ هَالَهُ : محروم کرنا۔

حَاوَرَةُ مُحَاوَرَةٌ وَحَوَارًا وَحَوَارًا. مَنكَوَرٌ : کرنا۔ جواب دینا۔ أَحَارَ إِحَارَةً. الْجَوَابُ : جواب دینا۔ اور اسی سے ہے "لم يَخْرُجْ جَوَابًا"

اس نے جواب نہیں دیا۔ اور کہا جاتا ہے "طَحَسَتِ الطَّاحِنَةُ لَمَّا أَحَارَتْ شَيْئًا" چکی پیسنے والی نے چکی پیسا اور آٹا کچھ بھی نہیں دیا۔

أَحَارَتِ النَّاقَةَ : بچڑ والی ہونا۔ أَحَارَ الْبَعِيْرَ : ذنگ کرنا۔

تَحَاوَرَتِ الْقَوْمُ : ایک دوسرے سے منگنو کرنا۔ ایک دوسرے کو جواب دینا۔

إِحْوَارًا إِحْوَارًا. سفید ہونا۔ إِحْوَرَّتِ الْعَيْنُ : بہت سیاہی اور سفیدی والی ہونا۔

إِسْتَحَارَهُ : منگنو کرنا۔ الحَوْرُ : ہلاکت۔ کسی۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَمِنَ حَوْرٍ وَبُؤْرٍ" یعنی وہ نہ تو کسی صفت میں ہے اور نہ کسی قسم کی آمدنی میں۔

الحَوْرُ : گرائی۔ کہا جاتا ہے "بَعِيْنَةُ الْحَوْرُ" یعنی تلخ۔ وَمَا أَصْبَحْتَ حَوْرًا مِثْلَ نَبِيٍّ

پایا۔ الحَوْرُ : سفید پتلے چڑے۔ سرخ رنگا ہوا چڑھ۔ گائے۔ ایک مشہور درخت جس کے گوند سے کرباب تیار ہوتا ہے۔ حِجْ أَحْوَارٌ۔

الخَوَارُ وَالْحَوَارُ. اَوْثَمِيٌّ كَأَيْدِيٍّ جَسَّ كَادُوْدِهِ ابْحَمِيٌّ نَدَّ حَمْرِيًّا يَا بُو. حِجْ أَحْوَرٌ قَوْ حِجْوَانٌ۔ الحَاوَرَةُ : گول چوک۔ محلہ۔ کہا جاتا ہے "تَوَزَّنَا لِمِ حَاوَرَةِ نَيْبِي فَلَانِي" ہم لوگ بنو فلان کے محلہ میں آئے۔

الخَائِرُ : قالا غرؤ بلا چلا۔ الحَاوِرَةُ : الخَائِرُ كَامُوْنَتْ. کہا جاتا ہے "مَا هُوَ الْخَائِرَةُ مِنَ الْخَوَارِي" یعنی اس کے اندر

إِحْتَاَجَ. إِلَيْهِ : محتاج ہونا۔

الحَاَجُ : ایک قسم کا لانا۔ ایک قسم کا ترش پورہ۔

الحَوَجُ : مہ۔ سلامتی۔ کہا جاتا ہے "حَوَجًا لَكَ" یعنی تمہارے لیے سلامتی ہو۔

الحَوَجُ : قہر و قاتلہ۔

الحَوَجَاءُ : حاجت، ضرورت۔ اور اسی سے ہے۔ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ حَوَجَاءٌ وَلَا لَوْجَاءٌ

وَالنَّصْفِغِيْرُ حَوْنِجَاءٌ وَلَا تُوْنِجَاءٌ" یعنی اسے کوئی حاجت نہیں۔ "وَكَلِمَةُ لَمَّا زَادَ حَوْنِجَاءٌ وَلَا تُوْنِجَاءٌ" میں نے اس سے منگنو کی اس نے اچھا بڑا کوئی جواب نہیں دیا۔

الحَاَجَةُ : ضرورت۔ سوال۔ حِجْ حَاَجٍ وَحَوَجٍ وَحَاَجَاتٍ وَحَوَائِجٍ الخیری جمع حَاَجَةٍ کی تقدیر پر ہے۔ مبالغہ کی غرض سے حَاَجَةٌ خَالِجَةٌ کہا جاتا ہے۔

المُحَاوِنِجُ : محتاج لوگ۔ حَادٌ (ن) حَوْدًا. عِنَهُ : ہٹ جانا۔

حَاوَرْتَهُ. الخَمِيْتُ : بخار کا بار بار آنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَحَاوِرُ ذَنَابًا بِالرِّيَّاوَةِ" وہ ہم لوگوں کے پاس ملاقات کے لیے بار بار آتا ہے۔

حَادَةٌ (ن) حَوْدًا. حَاوَرْتَهُ : حَاوَرْتَهُ : علی الشَّيْءِ : گہبالی کرنا (_____ وَأَحْوَرْتُ) الدَابَّةُ : حیر ہانکنا۔ أَحْوَرْتُ ثَوْبَهُ : کپڑے سے بیٹنا۔ أَحْوَرْتُ السِّيْرَ : تیز چلانا۔ أَحْوَرْتُ الشَّاعِرَ قَصِيْدَةً : عمدہ قصیدہ کہنا۔

إِسْتَحْوَرْتُ عَلَيْهِ : غالب ہونا۔ الحَاوِدُ : ایک قسم کا درخت۔ وَاحِدٌ (الحَاوِدَةُ) حِجْ أَحَاوِدٌ۔ پیچھے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ حَوْفِيْفٌ الْحَاوِدُ" وہ تھوڑے مال والا ہے۔

الْحَوَادِيُّ : ذوری جدائی۔ الحَوْدِيَانُ : ایک خوش مزہ نباتات کا نام جس کا پھول سرخ رنگ کا اور اس کی بڑ میں زردی ہوتی ہے۔

الأَحْوَادِيُّ : ماہر۔ ہر کام میں بہت و پھر چلا۔ الحَوْدِيِيُّ : کوچوان۔ گاڑی بن۔ عوام العزیمی کہتے ہیں۔

حَاوَرُ (ن) حَوْرًا وَحَوْرًا وَحَاوَرًا وَحَاوَرَةً. لَوْثًا : تخمیر ہونا (حَوْرًا) الثَوْبُ دھونا۔ سفید

الحَوْرِيَّةُ : بل باپ۔ بہن بیٹی۔

الحَوْرِيَّةُ وَالْحَوْرِيَّةُ : بل کی جانب سے قرابت۔ کہا جاتا ہے "لَمْ يَلِيْهِمْ حَوْرِيَّةٌ" میری

ان سے نامملی رشتہ داری ہے۔ حاجت۔ حالت۔ کہا جاتا ہے "مَا بَتَّ بِحَوْرِيَّةٍ شَيْءٌ" اس نے میری

حالت میں رات گزاری۔ الحَوْرِيَّةُ : بل کی مامتا۔ بیوی۔ باہمی۔

الحَوْرِيَّةُ : کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے "إِنَّمَا فَلَانٌ حَوْرِيَّةٌ" فلاں شخص کمزور ہے، نہ اس سے خیر کی امید ہے نہ شر کا خوف۔ و "إِنَّ لِي حَوْرِيَّةً

أَحْوَرُّهَا" میرے عیال ہیں جن کی میں کفالت کرتا ہوں۔

الأَحْوَبُ : گنہگار۔ مَوْنَتْ حَوْرِيَّةٌ. الحَوْرِيَّةُ : نفس۔ حِجْ حَوْرِيَّةٌ ات۔

المُتَحَوْرِبُ وَالْمُتَحَوْرِبُ : وہ شخص جس کا لال ضائع ہو جائے پھریل جائے۔

حَاوَرُ (ن) حَوْرًا حَوْرًا تَأَنًا. الطَيْرُ أَوْ الْوَحْشُ عَلَى الشَّيْءِ : منبلا۔

حَاوَرْتُهُ : کمزور فرب سے کام لیتا۔ دھوکا دینا۔ هَعِنَ كَثَدًا : بدانعت کرنا۔

الحَوْرُ : چھلی۔ عموماً بڑی چھلی پر المطلق ہوتا ہے۔ حِجْ حِيْشَانٌ وَأَحْوَاتٌ وَحَوْرَةٌ آسَمَانُ كَ

أَحْوَرَّتِ عَيْنُكَ : عموماً بڑی چھلی پر المطلق ہوتا ہے۔ حِجْ حِيْشَانٌ وَأَحْوَاتٌ وَحَوْرَةٌ آسَمَانُ كَ ایک برج کا نام۔

الحَوْرِيَّةُ : موٹی کردالی عورت۔ أَحَاوَتٌ إِحَاوَةً. الأَرْضُ : زمین کو کھود کر لانا

پلٹنا۔ الشَّيْءُ : لانا۔ کہا جاتا ہے "تَوَكَّهْمُ (حَوْرٌ بَوْرٌ أَوْ حِيْثُ يَنْتِ أَوْ حَاوَتٌ بَابٌ أَوْ حَوْرٌ تَأَنًا)" یعنی اس نے ان کو متفرق چھوڑا۔

الحَوْرِيَّةُ : جگہ اور اس کے آس پاس کے حصے۔ موٹی عورت۔

الحَوْرُ : جگر کی رگ۔ حَاَجٌ (ن) حَوْنِجًا. محتاج ہونا۔

حَوَجٌ : بہ عن الشَّيْءِ : کسی چیز کی وجہ سے کسی سے ہٹ جانا۔

أَحْوَجَ. إِلَيْهِ : محتاج ہونا۔ هَ : محتاج بنانا۔ تَحَوَّجَ : حاجت طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے

"مَخْرَجُ فَلَانٍ يَمُحَوِّجٌ" فلاں حاجت طلب کرنے کے لیے لگا۔

<p>حاض (ن) حَوْضًا۔ الابل: جمع کر کے ہانکنا (وَأَحَاشٍ) إِحَاشَةً وَأَحْوَشٌ إِحْوَاشًا وِ اسْتَحْوَشَ اسْتِحْوَاشًا الصید: گھیر کر پھرنے کی طرف لانا۔ حاض و أحوش و أحاش علیہ الصید و أحوضه إناهة: شکار کرنے میں مدد کرنا۔</p> <p>حَوْضَةٌ: بہت جمع کرنا۔ حَوْضُ الرَّجُلِ: ڈیری دکھانا تیار کرنا۔</p> <p>حَاوِشَةٌ عَلَی الْأَمْرِ: آسان۔ براگینہ کرنا۔</p> <p>تَحْوِشٌ: عنہ: طبعہ ہونا۔ مینہ: شرم کرنا۔</p> <p>المرأة فین زوجھا: بیوہ ہونا۔</p> <p>إِنْحَاشٌ: انکشا ہونا۔ عنہ: بھگانا۔ بدکھانا۔</p> <p>لہ الصید: شکار کا خورد آنا۔</p> <p>تَحَاوِشًا وَخَلِيَةً: اپنے درمیان میں کر لینا۔</p> <p>إِحْتَوَشَ الْقَوْمُ الصید: قوم کا شکار کو ایک دوسرے کی طرف بدکھانا۔</p> <p>إِحْتَوَشَ الْقَوْمُ الرَّجُلُ وَعَلِيهِ: گھیر لینا اور اپنے درمیان میں کر لینا۔</p> <p>الْحَوْشَةُ: باعث شرم۔ رشتہ داری۔ ایسا کلام جس میں گناہ و قطع رحمی ہو۔</p> <p>الْحَائِشُ: قا۔ حائش الشجر: درخت کا تنہا ہونا۔ رجل (حَوْش) الْفَوَادِ: ذکی و تنہا قسم مرد۔</p> <p>الْحَوْشِيُّ: مِنَ الْكَلَامِ: نادر و غریب کلام رجل حَوْشِيٌّ: لوگوں سے نہ ملنے والا۔ لیل حَوْشِيٌّ: تاریک رات۔</p> <p>حَاوِشٌ (ن) حَوْصًا وَجِئَاصَةً: الثوب دور دور سینا۔ حَوْزَةٌ مَنزَلَانَا: بہنہما: تک کرنا۔</p> <p>حَوْصٌ (س) حَوْصًا تَكْ كَوْشٌ وَجَمُّ وَاللَّوْحُ: صفت (أَحْوَصٌ) مَوْنَتٌ حَوْصًا ج حَوْصٌ وَأَحَاوِصٌ۔</p> <p>حَاوِصَةٌ: چپکے سے گوشہ چشم سے دیکھنا۔</p> <p>إِحْتَاوِصٌ: احتیاطی صلی امرہ: احتیاط کرنا۔</p> <p>الْحَوْصُ: بہ۔ بیٹ کا مروڑ۔ کہا جاتا ہے "لَا ظَلَعْتُ لِي حَوْصِيكٌ" جو تم نے سیاہ اس کو میں اُو میروں کا گارو جس کو تم نے درست کیا ہے</p>	<p>تکست کہنا۔</p> <p>الْحَوْزَةُ: گوشہ کنارہ، طبیعت۔ حَوْزَةٌ الْمَمْلَكَةُ: ایک مملکت کی سرحدوں کا درمیانی حصہ۔</p> <p>الْحَوْزُ: وہ جگہ جس کے ارد گرد دیوار وغیرہ کھڑی ہو۔ حَوْزُ الدار: مکان کے منافع جو اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ لَيْلَةُ الْحَوْزِ: پانی کی طرف اونٹوں کے جانے کی پہلی رات۔</p> <p>الْحَوْزِيُّ: اونٹ کا کھاننے والا۔ قوم سے علیحدہ ہو کر تھمتا ترے والا۔ کالا۔</p> <p>الْحَوْزِيُّ وَالْحَوْزِيُّ: جگہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا لِي حَوْزِ النَّوْائِرِ" یعنی یہ چیز تو اتنے سے ثابت ہے۔</p> <p>الْحَوْزَاءُ: لڑائی۔</p> <p>الْحَوْزَاءُ: ساتھیوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ذخیرہ۔</p> <p>الْحَوْزِيُّ: ماہر۔ ہر کام میں پھرتلا۔ ہنر کار گزار۔</p> <p>الْحَوَازُ: الحائز کا مبادلہ۔ اور اسی سے ہے "الْأَلَمُ حَوَازُ الْقَلْبِ" گناہ دلوں پر غالب آنے والا ہے یہاں تک کہ آدم خیر پندیدہ کام کر بیٹھتا ہے۔</p> <p>الْحَوَازُ: بڑے بڑے گھیر لینے۔</p> <p>حَاوِشٌ (ن) حَوْصًا: القوم: میل تھاپ کرنا۔ روئنا۔ ذلیل کرنا۔ اللؤلؤ الغنم: درمیان میں آکر پرانہ کرنا۔ حاسبت المرأة ذیلھا: دامن کھینچے ہوئے چلنا۔</p> <p>الْحَوَازُ: اِلْهَابٌ: قضائی کا کھال کو اتارنا۔</p> <p>حَاوِشٌ (ن) حَوْصًا: ذیل و ہمار ہونا۔ صفت (أَحْوِصٌ)</p> <p>تَحْوِشٌ: ڈیری دکھانا۔ فی الکلام: گفتگو کیلئے تیار ہونا۔ للشحن: رو دمنہ ہونا۔</p> <p>اسْتَحْوَشَ اسْتِحْوَاشًا: لڑکنا۔ دیر کرنا۔</p> <p>الْأَحْوِصُ: ذیل و ہمار۔ وہ شخص جو اپنی جگہ سے جدا نہ ہو جب تک کہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔</p> <p>بھیرنا۔ ج حَوْصٌ۔</p> <p>الْحَوِصُ: لوگوں کو بہت قتل کرنے والا۔ ہمار۔</p> <p>الْحَوْصَةُ: غنیمت۔ حاجت ()۔</p> <p>وَالْحَوِصَةُ: قرابت۔ رشتہ داری۔</p>	<p>کوئی ضرورت نہیں۔</p> <p>الْحَوْزِيُّ: سپید۔ نازک۔</p> <p>الْحَوْزِيُّ: میدہ۔ گھریا مٹی۔ ہر وہ چیز جس سے سفیدی کی جائے۔</p> <p>الْحَوْزِيُّ: طبیعت کرنے والا۔ خیر خواہ۔</p> <p>وَحَوِيٌّ: رشتہ دار۔ مددگار۔ اور بقول بعض انبیاء (علیہم السلام) کے مددگار اور اسی سے ہے (الْحَوْزِيُّ) سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے انصار و اعموان۔</p> <p>الْحَوْزِيُّ: الْحَوْزِيُّ كَامَوْنَتٌ۔ شہری عورت ج حَوَازِيَّاتٌ۔</p> <p>الْمَحْوُورُ: وہ کڑی یا لوہا جس پر چرخی گھومتی ہے۔ المحور فی الهندسة: علم ہندسہ کی اصطلاح میں وہ سیدھا خط جو کہ کے دونوں قطبین کے درمیان ہوتا ہے۔</p> <p>الْمَحْوُورُ: روئی پکانے والے کا پیلن۔ وہ نکلا جس پر کوئی چیز گھومے۔ ج مَحْوُورٌ۔ کہا جاتا ہے "لَقَلَّتْ مَحْوُورُهُ" یعنی اس کا معاملہ بگڑ گیا۔</p> <p>الْمَحْوَاةُ: واپس۔ کسی۔ لوستے کی جگہ۔ اونٹ کا گھر۔ تالو۔ ہر وہ بڑی جو پھی کی مانند ہو۔ محارہ الاذن: کان کاڑھا۔</p> <p>الْمَحْوُورَةُ وَالْمَحْوُورَةُ: جواب۔ خُفٌّ (مَحْوُورٌ) موزہ جس کا استر سرخ چمڑے کا ہو۔</p> <p>حَاوِشٌ (ن) حَوْزًا وَجِئَاصَةً وَاسْتِحْوَاشًا: جَمْعُ كَرَاتٍ۔</p> <p>الْحَوْشِيُّ: الْكَلَامُ: جمع کرنا۔</p> <p>الْأَبِلُ: نری سے ہانکنا (حَاوِشٌ حَوْزًا) الرَّجُلُ: نرم چلنا۔</p> <p>حَوْزٌ تَحْوِيزًا: الْأَبِلُ: پانی کی طرف لیلۃ الحوز میں اونٹوں کو ہانکنا (دیکھئے لیلۃ الحوز) حَاوِزَةٌ مَحْوَاةٌ: باہم زندگی بسر کرنا۔ میل تھاپ کرنا۔ روئنا۔ ایک دوسرے کو دھتکارنا۔</p> <p>تَحْوِيزٌ: طبعہ ہونا۔ الحجة: کٹھن مارنا۔</p> <p>کہا جاتا ہے "ذَخَلَ عَلَيْهِ فَمَا تَحْوِيزَةٌ" وہ اس کے پاس آیا اور اس کے لیے طبعہ نہیں ہوا۔</p> <p>تَحَاوِزٌ: الْفَرِيقَانِ: ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا۔</p> <p>إِنْحَاوِزٌ: الْحِجَاوِزُ: عنہ: بہت جانا۔ اَلَيْتَهُ: بائٹ ہونا۔ القوم: مرکز کو چھوڑ دینا۔</p>
---	--	--

اس کو بگاڑوں گا۔" وما طَعْنَتْ فِي حَوْصِهِ " تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔" و" دخل في حَوْصِ الناسِ " وہ لوگوں کے باطن امور میں داخل ہوا۔

الجِيَاصَةُ - جانور کا ننگ۔

الجَوَاصُ - لکڑی کی سوئی۔

الجَوْصُ - چھوٹی آنکھیں۔

حَوْصَلٌ - الطائر: پونا بھرتا
الجِنِطَةُ: اکٹھا کرنا۔

الحَوْصَلُ والحَوْصَلَةُ والحَوْصَلَةُ والحَوْصَلَةُ
الحَوْصَلَةُ - پرندہ کا پونا۔

حَاوَسَ (ن) حَوْصًا - حوض بنانا
الماء: جمع کرنا۔

حَوْصٌ - حوض بنانا
حووَى الامر: گھومنا، چکر لگانا۔

إِحْتَاوَسَ وَتَحَوَّصَ - حوض بنانا۔

إِسْتَحَوَّصَ - الماء: حوض کے مشابہہ گزرنے میں جمع ہونا۔

الحَوْصُ - پانی جمع ہونے کی جگہ۔ ج- أَحْوَاضُ
وَجِيَاضُ وَجِيَاضَانُ - حَوْصُ الأُذُنِ: کان کا گڑھا۔

المَحْوُصُ - درخت کے ارد گرد پانی کا گڑھا۔
قَالَ۔

حَاوَسَ (ن) حَوْطًا وَحِيْطَةً وَحِيَاطَةً
حَفَاظَتْ كَرَأَ - نگہبانی کرنا
يَه: گھیر لینا۔
احاطہ کرنا۔

حَوْطَةٌ - حفاظت کرنا۔ نگہبانی کرنا۔

المَسَاخَةُ: گرد گرد دیوار بنانا
الحَاظُ: دیکھنا
حَوْطُ الامر: گھومنا، چکر لگانا۔

حَاوَسَ: کسی سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے دینے سے وہ انکار کر رہا ہو بیچے پڑنا اور اس کے گرد چکر لگانا۔

أَحَاوَسَ وَاحْتَاوَسَ: یہ: گھیرنا۔ احاطہ کرنا۔ کما جاتا ہے "أَحَاوَسَ بِهِ عُلْمًا" اس نے پورے طریقے سے علم حاصل کیا۔

إِحْتَاوَسَ التَّوَجُّلُ: ہوش و حواس سے کام کرنا۔
إِحْتَاوَسَ عَلَى الشَّيْءِ: محافظت کرنا۔
إِحْتَاوَسَ لِنَفْسِهِ: بھروسہ کے ساتھ لینا۔

تَحَوَّطَةٌ - حفاظت کرنا۔ کما جاتا ہے۔ "فَلَانٌ يَتَحَوَّطُ أَنْحَاهُ حِيْطَةً حَسَنَةً" فلاں اپنے بھائی کی ہمت اچھے طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔
إِسْتَحَاوَسَ فِي أَمْرِهِ أَوْ يَحَاوِسُ بِهِ: احتیاط کرنے میں مبالغہ کرنا۔

الحَوْطَةُ والحِيْطَةُ والحِيْطَةُ - احتیاط کا اسم۔
الجِنِطَةُ: پاکدامن شریف عورت۔

الحَوْطُ - سہ: چاندی وغیرہ کا بنا ہوا چاندی ہلالی شکل کا سیاہ و سفید دو رنگوں کا ڈھانچا کہ جس میں نمبرے یا کوڑی وغیرہ پرو کر نظر بد سے بچنے کے لیے عورتیں کمر باندھتی ہیں۔

الجَوْطُ - وہ چیز جس سے دراہم کے نقصان کو پورا کریں۔

الأَحْوَطُ - ہمت احتیاط کرنے والا۔ قابل اعتماد۔ (اور یہ شاعرے اس لیے کہ احتیاط سے ماخوذ ہے۔)

الحَايِطُ - قار دیوار۔ باغ۔ ج- حِيْطَانُ وَحِيَايِطُ۔

الحَوْاطُ - حائط اسم ناعل کا مبادلہ۔

حَوْاطَةُ الأَمْرِ: کسی کام کا مدار۔

الحَوْاطَةُ - قَلْبُ کی حفاظت کے لیے بنی ہوئی جگہ۔

المَحَاطُ - وہ جگہ جو قوم کے یا جانوروں کے پیچھے ہو اور جہاں ان کی حفاظت ہو۔

المَحِيْطُ - قار۔ وہ خط جو دائرہ کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔
التَّحْوِيطُ المُحِيْطُ: بحر اوقیانوس جو ہر طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے۔

حَاوَفَ (ن) حَوْفًا وَحَوْفًا - الشَّيْءِ: کنارہ پر کرنا۔
حَوْفُ المَكَانِ:

تَحَوَّفَ - الشَّيْءِ: کناروں سے کم کرنا۔ کنارہ کو پکڑنا۔

الحَوْفُ - سہ: ازار کی مانند چمڑے کی ایک چیز جس کو سچے پختے ہیں۔
جانب۔ کنارہ۔ گوشہ۔

الحَاوِفَانُ - زبان کے نیچے سبز رنگ کی دو رگیں۔
الحَاوِفَةُ - جانب۔ کنارہ۔ شدت۔ حاجت۔ ج-

حَاوِفَاتُ وَحِيْفٍ - حافِقًا الوادِي وَنَحْوَهُ: وادی کے دونوں کنارے۔

حَاوِفًا (ن) حَوْفًا - البيت: چھاڑ دینا
الشَّيْءِ: گرد گرد چکنا کرنا
يَه: احاطہ کرنا۔

حَوْطٌ - عليه: گزرنے کو گفتگو کرنا۔

الحَوَقُ والحَوْقَةُ - بڑی جماعت۔

الحَوَقُ - گھبرا۔ چوکھا۔

الحَوْاقَةُ - کوڑا کرکٹ۔ سامان۔

المَحْوَقَةُ - جھاڑو۔ ج- مَحْوَاوِقُ۔

حَوْقَلٌ حَوْقَلَةٌ وَحِيْقَالًا - چلنے سے تھکنا۔

كزور بڑھا ہونا
الشيخ: چلنے میں کمر پر ٹیک لگانا۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم کہنا۔

الحَوْقَلُ - غم رسیدہ بڑھا۔

الحَوْقَلَةُ - سہ: لمبی گردن کی شیشی۔

حَاكٌ (ن) حَوَاكٍ وَحِيَاكٍ وَحِيَاكَةَ الثَّوْبِ: بننا۔
مفت۔ (حَايِكٌ ج- حَايِكَةٌ وَحَوْكَةٌ - مؤنث حَايِكَةٌ وَحَايِكٌ - ج- حَايِكَاتٌ وَحَوَايِكٌ - کما جاتا ہے "حَاكُ الشَّاعِرِ القَصِيْدَةَ" شاعر نے قصیدہ بنایا۔ "وَحَاكُ الشَّيْءِ فِي صَدْرِي" فلاں چیز میرے دل میں جم گئی۔

مَا أَحَاكُ سَيْفُهُ: نہ کاٹنا۔ کما جاتا ہے "حَوْرِيَه فَمَا أَحَاكُ فِيْهِ سَيْفُهُ" اس نے اُسے مارا لکوار نے کوئی اثر نہیں کیا۔ (یہ بیوش نفی ہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے)

الحَوْكُ - جنگلی تلمی۔ کما جاتا ہے "هَذَا عَلِي حَوْكٌ هَذَا" یہ بہت دھنل و عمریں اس کی مانند ہے۔

المَحَاكَةُ - کارگہ۔ کھڑی۔

المَحْوَكَةُ - لڑائی۔ جنگ۔

حَاوَى (ن) حَوْوًا وَحَوْوًا - الشَّيْءِ: ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا
الحَوْوُ: گزرتا اور پورا ہونا۔ کما جاتا ہے "حَالَتِ الدَّارُ وَحِيْلَ بَيْتًا" گھر پر ہمت سے سال گزرے
_____ عليه الحَوْوُ: پورا سال گزرتا۔
القَوْشُ: کج ہونا
_____ العهد: پلٹ جانا
_____ الی مکانِ آخر: منتقل ہونا
_____ فی ظَهْرِ الدَّابَّةِ: جانور کی پیچھے پر کود کر چڑھنا
_____ الشخصِ: متحرک ہونا۔ (_____ حِيلَةٌ وَمَحَاوِلًا) حِيلَةٌ کرنا۔

حَوْوًا وَحِيَاوًا - الانبِي: حاملہ نہ ہونا
_____ النَحْلَةُ: ٹانگے سے پھلدار ہونا۔ (_____ حَوْوًا وَحَوْوًا وَحِيْلًا) حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

حَوْوًا وَحِيْلًا: درمیان میں

ماکل ہوتا۔

خَوَّلَتْ (س) خَوْلًا عَيْنُهُ۔ بھیجی ہوئی۔

خَوْلَةٌ تَخْوِيلًا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ

نقل کرنا۔ زائل کرنا۔ خَوْلَةُ الْيَتِيمِ: پلٹ دینا۔

خَوْلُ الزَّجَلِ: نقل ہونا۔ خَوْلُ الْأَرْضِ: ایک

سال کے نام سے کاشت کرنا۔ الشَّيْءُ:

عمل ہونا)۔ وَأَخَالَ الْعَيْنَ: بھیجا کرنا۔

خَاوِلَةٌ مُخَاوَلَةٌ وَجَوَالٌ: جیلہ سے طلب کرنا

_____ لہ البصر: تیز کرنا۔ الشَّيْءُ: ارادہ

کرنا اور جیلہ سے طلب کرنا۔

أَخَالَ: اللَّهُ الحَوْل: پورا کرنا _____

بالمكان: ایک سال قیام کرنا۔ الزَّجَلُ:

عمل بات کرنا۔ الشَّيْءُ: چند سال گزرتا۔

أَخَانَ الْغَرِيمَ بِدَيْبِهِ عَلِيٌّ أَحْمَرٌ: قرض کو

دوسرے کے حوالہ کرنا۔ صفت فاعلی (مُجْتَلٍ)

صفت مفعول (مُخَالَ) اور دوسرے غریم کو (مُخَالَ)

علیہ) مال کو (مُخَالَ) بہ) اور اس فعل کو

(الحوالة) کہتے ہیں۔ أَخَانَ عَيْنَهُ: بھیجی کر دینا۔

أَخَانَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الدَّلْوِ: اُتْرے ملنا۔ کہا جاتا

ہے "أَخَانَ عَلَيْهِ بِالسُّوْطِ يَضْرِبُهُ" وہ اس کو

کوڑے سے مارنے پر متوجہ ہوا۔ أَخَالَ فِي

ظَهْرِ الدَّابَّةِ: کوڑ کر سوار ہونا۔ أَخَانَ الْأَمْرَ عَلَيَّ

فُلَانٌ: کسی پر کسی کام کو منحصر کر دینا۔

أَخْوَلَ الصَّبِيَّ: ایک سالہ ہونا اور کہا جاتا ہے

"مَا أَخْوَلَهُ وَمَا أَخْوَلَهُ" وہ کتنا بڑا جیلہ ساز ہے۔

"وَهُوَ أَخْوَلُ مِنْكَ وَأَخْوَلُ مِنْكَ" وہ تم سے

زیادہ جیلہ کرے۔

تَخَوَّلَ عَنْهُ: پھر جانا۔ الزَّجَلُ: ایک

جگہ سے دوسری جگہ نقل ہونا _____ فی

الامر: جیلہ وکمر سے کام کرنا۔

إِخْتَالَ إِحْتِيَالًا: جیلہ کرنا۔ الشَّيْءُ:

ایک سال کا ہونا _____ عَلَيْهِ بِالذَّيْنِ:

دوسرے کے ذمہ ڈالنا۔

إِخْوَلَهُ الْقَوْمُ: گھیر لیا۔

إِخْوَلَتْ عَيْنُهُ: بھیجی ہوئی۔

إِخْوَالَتِ الْأَرْضُ: سرسبز ہونا اور ہموار

آگیا۔

إِسْتَخَالَ إِسْتِحَاةً: ایک حال سے دوسری

حالت کی طرف بدلنا۔ حال ہونا۔ القَوْسُ:

درستی کے بعد کج ہونا۔ فُلَانٌ الشَّيْءُ: کسی

چیز کی طرف دیکھنا کہ آیا اس میں حرکت ہے یا

نہیں۔

الحَالُ: کیفیت۔ بَيْتٌ: صفت (مذکر مؤنث)

گرم راکھ۔ کالی مٹی۔ حَالٌ مَتْنِ الْفَرَسِ:

گھوڑے کی پشت کا درمیان۔ جِ أَخْوَالٍ

وَأَخْوَلَةٌ.

حَالَةٌ: الشَّيْءُ: کیفیت۔ حالت۔ جِ حالات۔

حَالَاتِ الذَّهْرِ: زمانہ کی گروٹھیں۔

الحَوْلُ: نہ قدرت۔ کہا جاتا ہے "لَا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" یعنی نہ تو حرکت ہے نہ قوت ہے مگر

اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ ہوشیاری۔ دُور بِنِي:

سال۔ جِ حَوُولٍ وَأَحْوَالٍ.

الحَوَالِيُّ: ایک سالہ بچہ۔ جِ حَوَالِيَاتِ: اور اسی

سے ہے "حَوَالِيَاتُ زُهَيْرٍ" یعنی زہیر کے وہ قصائد

جن کی نظم و ترتیب اور تزیین لوگوں کے

سامنے پیش کرنے میں ایک سال کی مدت لگتی تھی۔

الحَوْلُ: ہوشیاری۔ دُور بِنِي: قدرت، تصرف

زوال۔ اِسْتَخَالَ: کہا جاتا ہے "لَا حَوْلَ عَنْهُ"

الحَوْلُ: بھیجا پن۔

حَوْلٌ وَحَوْلِيٌّ وَحَوَالٌ وَحَوَالِيٌّ: الشَّيْءُ او

الشَّيْءُ: شخص سے گردا گرد۔ کہا جاتا ہے "فَعَدَّ حَوْلَهُ وَ

حَوْلِيَّهُ وَحَوْلَهُ وَحَوَالِيَّهُ"

الحَوَالُ وَالْحَوَالَانُ وَالْحَوَالِيْنَ: تفسیر و

اِثْقَابُ.

الحَوَالِيُّ وَالْحَوْلُ وَالْحَوَالِيُّ: جیلہ ساز۔ بہت

خفت جیلہ کر۔

الحَوَالُ: ہر وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان

ماکل ہو۔

حِيَالٌ: الشَّيْءُ: مقابل۔ سامنے اور کہا جاتا ہے

"فَعَدَّ كُلَّ عَلِيٍّ حِيَالَهُ" ہر ایک علیہ علیہ بھیجا۔

الحِيَالَةُ وَالْحَوْلَةُ: ہوشیاری۔ دُور بِنِي: تصرف

کی قوت۔ جِ حِيَالٍ وَحَوْلٍ.

الحَوْلَةُ: توجہ۔ امر مکر۔ مصیبت۔ کہا جاتا ہے

"رَجُلٌ حَوْلَةٌ" یعنی بہت جیلہ کر مرد۔

"وَهَذَا مِنْ حَوْلَةِ الذَّهْرِ" یہ عجائباتِ زمانہ سے

ہے۔

الحَوْلُ: بھیجا۔ بہت جیلہ کر۔

الحَوَالِيُّ: گواہ۔ ضامن۔

الأَحْوَالُ: بھیجا۔ مؤنث خَوْلَاءُ۔ جِ حَوْلٌ.

الحَائِلُ: تھ۔ رنگ بدلا ہوا۔ یکسالہ۔ ہر وہ ماہ جو

حاملہ نہ ہوتی ہو۔ کہا جاتا ہے "إِمْرَأَةٌ حَائِلٌ وَ

تَخْلَةُ حَائِلٌ" جِ حَوْلٌ وَ حَوْلٌ وَ حِيَالٌ وَ

حَوَالِيٌّ.

الحَائِلَةُ: الحَائِلُ: مؤنث۔ جیلہ۔ کہا جاتا ہے "مَا

فِيهَا حَائِلَةٌ" اس میں کوئی جیلہ نہیں۔

المُحَالُ: مشکل۔ باطل۔ ٹیڑھا۔ غیر ممکن۔

المُحْوَلُ: ایک سالہ بچہ۔

المُجْتَلِ: مِنَ النِّسَاءِ: لڑکی کے بعد لڑکایا

لڑکے کے بعد لڑکی بننے والی عورت۔

المُفْحَالَةُ: ہوشیاری۔ تصرف کی قدرت۔

رہٹ۔ بیٹھ کادر میان۔ جِ مَحَالٌ وَمَحَاوِلٌ: کہا

جاتا ہے "لَا مَحَالَةَ مِنَ الْأَمْرِ" ضروری۔ اس

میں کوئی شک نہیں۔ المَحَالَةُ: رہٹ۔ بڑی

چرخی۔

المُحْوَالُ: بہت محال باتیں کہنے والا۔

المُسْتَحِيلُ: بیہودہ و لغو بات۔ بھرا ہوا۔

المُسْتَحِيلَةُ وَالْمُسْتَحَالَةُ مِنَ الْقِسْمِ:

ٹیڑھی کمان _____ مِنَ الْأَرْضِ: ایک سال یا

چند سال چھوڑی ہوئی زمین۔

حَامٌ (ن) حَوْمًا وَ حَوْمَانًا: علی الشَّيْءِ وَ

حَوْلَهُ: مثلاً _____ الزَّجَلُ: پیاسا ہونا۔

صفت (حَائِمٌ) جِ حَوْمٌ: مؤنث حَائِمَةٌ: جِ

حَوَائِمٌ وَ حَوْمٌ (_____ حَوْمًا وَ حِيَالًا وَ

حَوْمًا) حَوْلًا غَرَضًا وَ عَلِيَهُ: طلب کرنا۔

حَوْمٌ: فی الامر: کام میں لگا رہا۔

الحَوْمُ: آؤٹوں کا بڑا ٹکڑہ۔

الحَوْمُ: شراب جو سر کو پکرا دے۔

حَوْمَةٌ: القتال او البحر او الرمل وغير

ذلك۔ براحصہ۔ حَوْمَةُ المَوْتِ: موت کا جھوم۔

الحَوْمَةُ: بلور۔

حَوْمَلٌ حَوْمَلَةٌ: پانی اٹھانا۔

الحَوْمَلُ: صاف سیلاب۔ کلابادل۔

تَحْوَلٌ: الزَّجَلُ: ذلیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔

حَوِيٌّ (س) حَوِيٌّ وَ أَحْوَوِيٌّ وَ أَحْوَوَاءُ وَ

الْحَاخِيفُ - فَاحْتَفِئِ الْجَبَلِ: پہاڑ کا کنارہ۔
الْحَيْفَةُ: گوشہ۔ کپڑے کا ٹکڑا جو قمیص کے
واسن میں پیوند لگایا جائے۔ شکار کے واسطے پتکایا
ہوا جانور۔ جیٹ۔
الْأَحْيِفُ: مِنَ الْأَهْكِيَةِ: وہ جگہ جہاں بارش
نہ ہو۔ مؤنث حَيْفَاءُ۔

حَاقٍ (ض) حَيْقًا وَحَيْقًا قَاو حَيْقَانًا وَ أَحَاقَ
إِحَاقَةً بِهِ: احاطہ کرنا۔ گھیرنا۔ حَاقٍ بِهِمُ الْأَمْرُ:
لازم ہونا۔ واجب ہونا۔ بِهِمُ الْعَذَابُ:
نازل ہونا۔ فِيهِ السَّيْفُ: اثر کرنا۔ نشان
ڈالنا۔ أَحَاقَ الشَّيْءُ بكذا: گھیر کرنا۔
حَاقِيَهُ مَحَاقِيَةً: حسد کرنا۔ دشمنی کرنا۔
بعض رکنا۔

إِحْتِاقٌ: علی الشیء: احتیاط کرنا۔
الْحَيْقِيُّ: بڑے فصل کی وجہ سے جو کچھ انسان کو
لازم ہو۔

الْحَيْقَلُ: بے فیض آدمی۔
حَاكٌ (ض) حَيْكًا وَ حَيْكَانًا: ٹھیکر نہ چال
چلنا۔ صفت (حَاكِيًا وَ حَيْكًا): سوت حَيْكَانَةٌ
وَ حَيْكَانَةٌ وَ حَيْكِي () وَ أَحَاكٌ)
السَّيْفُ: کانا السَّيْفُ اَوِ الْكَلَامِ فِيهِ: اثر کرنا۔
إِحْتَاكٌ: إِحْتِيَاكًا: بقویہ: پلٹنا۔ مِثْنَةٌ
(جینکی) ٹھیکر نہ چال۔

حَاَلٌ (ض) حُيُولًا: الشَّيْءُ: بدلنا الماء:
وادی میں جمع ہونا۔

الْحَيْلُ: قُوَّةٌ: وادی میں جمع شدہ پانی۔ ج
أَحْيَالٌ وَ حُيُولٌ۔

الْأَحْيَالُ وَالْأَحْيُولُ: بہت جلد کرنے والا۔
الْحَيْلَةُ: ہوشیاری۔ دور بینی۔ تصرف کی

قوت۔ ج حَيْلٌ۔
الْحَيْلَةُ: کبریوں یا بھیمروں کا ریوڑ۔
جلد گری۔

الْحَيْلَانُ: غلہ گانے کا دوزار۔

حَانَ (ض) حَيْثًا وَ حَيْثُونَةً: الشَّيْءُ: وقت
قریب ہونا۔ فلان: ہلاک ہونا۔ رنج و
تکلیف میں پڑنا۔ توفیق سے محروم ہونا۔ حَانَ لَهُ أَنْ
يَفْعَلَ كَذَا: وقت قریب آنا۔ الشَّيْءُ: خشک ہو
کر کٹائی کا وقت قریب آنا۔

حَيْثَةً: وقت و ميعاد مقرر کرنا۔ اللہ
فلانا: ہدایت کے لیے توفیق نہ دینا۔

حَايَهُ: وقت معین کیلئے معاملہ کرنا۔
أَحْيَنُ إِحْيَانًا: الزُّحْلُ اَوِ الشَّيْءُ: وقت آنا
بالمکان: کچھ وقت کے لیے قیام کرنا۔

أَحَاَهُ: اللہ: ہلاک کرنا۔
تَحْيَنٌ: مِنْهُ غَفْلَةٌ: انتظار کرنا۔ کما جاتا ہے "هُوَ
يَتَحَيَّنُ طَعَامَ النَّاسِ" وہ لوگوں کے کھانے کے
وقت کا انتظار کرتا ہے۔ توفیق و ہدایت سے
محروم رہنا۔

إِسْتَحْيَنَ: وقت مناسب کی آرزو رکھنا۔
الْحَايَةُ وَالْحَايَةُ: شراب فروشی کی دکان۔

الْحَيِّنُ: ہلاکت۔ رنج و محنت۔
الْحَيِّنُ: وقت۔ ج أَحْيَانٌ۔ ج أَحْيَائِنُ۔

الْحَيْثَةُ وَالْمَحْيَانُ: وقت۔
الْحَايِنُ: نا۔ بے وقوف۔

الْحَايِنَةُ: مہینت۔ ج حَوَائِنُ۔
حَيٌّ (س) حَيَاةً: زندہ رہنا۔ اس میں ایک لغت

ادغام سے بھی ہے۔ کما جاتا ہے حَيٌّ يَحْيَى ()
حَيَاةً مِنْهُ: متقبض ہونا۔

الطَّرِيقُ: ظاہر ہونا۔
حَيَّاهُ وَ نَحْيَةً: حَيَاكُ اللہ کما (یعنی اللہ

تمہاری عمر روزا کرے) سلام کرنا۔ حَيَّاهُ اللہ: باقی
رکھنا۔ کما جاتا ہے "حَيَّاهُ الْخَمْسِينَ مِنْ غَمْرِهِ"
وہ اپنی عمر کے پچاسویں سال کے قریب پہنچا۔

حَايَاتٌ حَايَاتَةٌ: الصَّبِيُّ: غذا دینا۔ زَيْدًا:
شرم دلانا۔ النَّازُ: بھڑکانا۔

أَحْيَاهُ: زندہ کرنا۔ النَّازُ: چھوٹ کر سنانا

الارض: سرسبز ہونا۔

الرَّائِدُ الْأَرْضُ: گھاس پانی طلب کرنے والے کا
زمین کو سرسبز بنانا۔ اللَّيْلُ: بیدار رہنا۔
(أَحْيَاهُ وَ إِسْتَحْيَاهُ) زندہ چھوڑنا۔

إِسْتَحْيَا وَ اسْتَحْيَى: مِنْهُ: شرم کرنا۔
إِسْتَحْيَاهُ وَ اسْتَحْيَاهُ مِنْهُ: متقبض ہونا۔
باز رہنا۔

سَحَى وَ سَحَى هَلَا وَ حَيْهَلٌ: اسم فعل بمعنى
أَقْبَلَ وَ عَجَلَ: کما جاتا ہے سَحَى عَلَى
الصَّلَاةِ "یعنی نماز کے لیے آؤ۔ (سحی هل)
بفلان: فلان کو بلاؤ۔

الْحَيَاةُ وَالْحَيَاةُ: بارش۔ ترو تازگی۔ نباتات۔
الْحَيَاةُ: شرم دہیا۔ کسی چیز سے متقبض ہونا اور
سلامت کے خوف سے چھوڑنا۔ بارش و
ترو تازگی۔ توبہ۔

الْحَيَاةُ: زندگی۔
الْحَيُّ: زندہ۔ نسبت کے لیے (حَيُّوئِي)

مؤنث حَيَّةٌ: أَزْهَى حَيَّةٌ: سرسبز زمین۔ کما جاتا
ہے "لَا يَغْرِفُ الْحَيُّ مِنَ اللَّحْيِ" یعنی وہ پورے
ہے۔ الْحَيُّ: محلہ۔ عرب کے قبیلوں میں سے
چھوٹا قبیلہ۔ ج أَحْيَاءُ۔

الْحَيْثَةُ: سناپ (مذکر و مؤنث) ج حَيَّاتٌ
وَ حَيَّاتٌ۔

الْحَيْثُوتُ: نرسناپ۔
الْحَيَّيُّ وَالْحَيَّيُّ: شرم دلانا۔

الْحَيَّوَانُ: جاندار۔ ج حَيَّوَانَاتٌ۔
الْمُسْتَحْيَةُ: چھوٹی موٹی۔

الْمَحْيَا: وہ موقع جہاں شرم کی جائے۔ ج
مَحَايَ: زندگی۔

الْمَحْيَا: چہرہ۔
ارض (مَحْيَاةً) بہت ساتھیوں والی زمین۔

خَبَّ (ن) خَبَّاءُ۔ النبات: بلند ہونا۔ بڑھنا
 الزَّجَلُ: اٹلی چیز کو روکنا۔ بھل کی وجہ سے
 بے نشان ہونے کیلئے پست زمین میں اتر آنا
 خَبَّاءُ وَخَبَّيْبًا وَخَبَّيْبًا وَخَبَّيْبًا (الفرض
 فی غزوة: گھوڑے کا دوڑنے میں کبھی اگلی
 ٹانگوں پر گمراہ ہونا اور کبھی پچھلی پر۔) خَبَّاءُ
 وَخَبَّيْبًا (البخارہ: جوش مارنا۔
 خَبَّ (س) خَبَّاءُ وَخَبَّاءُ مَكَارِبًا
 خَبَّيْبًا: دھوکا دینا۔ خراب کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "خَبَّيْبٌ عَلَى فُلَانٍ صَدِيقُهُ" اس نے
 فلاں کے دوست کو بگاڑ دیا۔ خَبَّيْبٌ لِحُمِّهِ:
 گوشت کے جانے رہنے سے مہرباں پڑنا۔
 آخَبَ: الفرض: گھوڑے کو خَبَّيْبٌ جال چلانا
 (دیکھئے صدر خَبَّيْبٌ)
 الخَبَّاءُ: سہ۔ دغا باز۔ فرجی۔ فساد۔ ریت کی
 دھاری۔ نرم زمین جو دو سخت زمیوں کے
 درمیان ہو۔ ج خَبَّوْبٌ۔ کہتے ہیں "أَصْحَابُهُمْ
 الخَبَّ" یعنی ہوائیں ان پر بچھیرے ہو گئیں اور
 موجوں میں اضطراب ہو گیا۔
 الخَبَّاءُ: پست زمین۔ درخت کی پھال۔ ج
 خَبَّوْبٌ وَأَخْبَابٌ۔
 الخَبَّاءُ: مُتَلَبِّدَةُ الخَاءِ: ریت یا پدلی کی
 دھاری۔ بٹی کی طرح دھجی۔ الخَبَّاءُ: پانی کے جمع
 ہونے کی جگہ۔ وادی کا درمیانی حصہ۔ گوشت کا
 پارچہ۔
 ثَوْبٌ (جَبَّيْبٌ وَخَبَّيْبٌ وَأَخْبَابٌ) پھنے
 پڑنے کیڑے (تعداد اجزاء کی وجہ سے صفت
 میں جمع لانا جائز ہے)
 الخَبَّيْبُ: زمین میں لہلاہ گاف۔
 الخَبَّيْبَةُ: ریت یا پدلی کی دھاری۔ گوشت کا

پارچہ۔ وادی کا درمیانی حصہ۔ ج خَبَّيْبٌ
 المَخْبِيَّةُ: وادی کا درمیانی حصہ۔
 خَبَّاءُ (ف) خَبَّاءُ وَخَبَّاءُ الشَّيْءِ: چھپانا۔ پوشیدہ
 کرنا۔
 خَبَّاءُ: کسی سے چیتاں و پھیل کرنا۔
 اخْتَبَأَ: منہ: چھپنا۔ الشَّيْءِ: چھپانا۔ کہا
 جاتا ہے "اخْتَبَأَ لَهُ خَبَّيْبًا" اس نے اس سے ایک
 چیز پوشیدہ کی اور پھر اس سے دریافت کیا۔
 الخَبَّاءُ وَ الخَبَّيْبُ: پوشیدہ۔ خَبَّاءُ
 الارض: نباتات۔ خَبَّاءُ السماء: بارش۔
 کہتے ہیں "أَنْفَخَ جَ خَبَّاءُ السماءِ خَبَّاءُ
 الارضِ" بارش نے نباتات کو آگایا۔
 الخَبَّاءُ: اُون یا بالوں کا شہ۔ ج الخَبَّيْبَةُ:
 الخَبَّيْبَةُ: پوشیدہ رکھی ہوئی چیز۔ ج خَبَّيْبًا:
 الخَبَّاءُ وَ الخَبَّيْبَةُ: مٹکا۔ ج الخَبَّوْبِيُّ
 وَ الخَبَّوْبِيُّ: ہنٹا الخَبَّاءُ: شراب۔
 الخَبَّاءُ: سمت پوشیدہ رہنے والی عورت۔
 الخَبَّاءُ: چھپنے کی جگہ۔ ج مخابئ۔
 خَبَّيْبٌ (ض) خَبَّيْبًا: پوشیدہ ہونا۔ مخفی
 ہونا۔
 الخَبَّيْبُ: القوم: کشادہ دست زمین میں آنا
 الخَبَّيْبُ: عاجزی و فروتنی کرنا۔
 الخَبَّيْبُ: کشادہ دست زمین۔ ج الخَبَّيْبُ
 وَ الخَبَّوْبُ:
 الخَبَّيْبَةُ وَ الخَبَّيْبَةُ: تواضع۔ عاجزی۔ فروتنی۔
 الخَبَّيْبُ: حقیر و فرمایہ و خمیٹ۔ کہا جاتا ہے
 "هُوَ خَبَّيْبٌ لِنَفْسِهِ" وہ شکستہ دل ہے۔
 خَبَّيْبٌ (ن) خَبَّيْبًا وَ خَبَّيْبًا: خَبَّيْبَةُ: پلید و
 ناپاک ہونا۔ صفت (خَبَّيْبٌ) ج خَبَّيْبٌ وَ خَبَّيْبًا
 وَأَخْبَابٌ وَ خَبَّيْبَةٌ: خَبَّيْبٌ نَفْسُهُ: جی مٹلانا

بِالْمَرْأَةِ: زنا کرنا۔

خَبَّيْبٌ (ك) خَبَّيْبًا: روی ہونا۔ مکار ہونا۔
 وَأَخْبَيْتُ: بڑے لوگوں کے ساتھ رہنا۔
 وَأَخْبَيْتُهُ: بُرَائِي سَكَلَانًا: خراب کرنا۔ بُرَائِي کی
 طرف منسوب کرنا۔

خَبَّيْبَةٌ: خَبِيث بنانا۔ الطعام: کھانے کو
 ناگوار کر دینا۔

تَخَبَّيْتُ: بُرَائِي ظاہر کرنا اور اس پر عمل کرنا۔

تَخَبَّيْتُ: بخلک شرات کرنا۔

إِسْتَخْبَيْتُ: بُرَائِي کرنا۔ شرارت کرنا۔
 ہ: بُرِئَانًا۔

الخَبَّيْبُ: مِنَ الحَدِيدِ وَ نحوه۔ لوہے کا میل
 سونے یا لوہے کا کھوٹ۔ بے فائدہ چیز۔

خَبَّيْبٌ: برون لفظ۔ عیب سے معدول
 ہے اور صرف ندا کی صورت میں عورت کو گالی
 دینے کے لیے آتا ہے جیسے "یا خَبَّيْبُ" اے
 بدکار عورت۔

خَبَّيْبٌ: خَبِيث سے معدول ہے اور یہ بھی
 صرف ندا ہی کے موقع پر مرد کو گالی دینے کے لیے
 آتا ہے۔ جیسے "یا خَبَّيْبُ" یعنی اے بدکار مرد۔

الخَبَّيْبُ: بچاک۔ گھٹیا۔ ناپسندیدہ چیز۔ ہر حرام
 چیز۔ ہر خراب چیز۔ ج خَبَّيْبٌ وَ خَبَّيْبًا وَ أَخْبَابٌ
 وَ خَبَّيْبَةٌ: مؤنث خَبَّيْبَةٌ: ج خَبَّيْبَاتٌ وَ
 خَبَّيْبَاتٌ۔

الخَبَّيْبَاتُ: بڑے افعال۔ وہ چیزیں جن کو عرب
 گندی سمجھتے تھے اور کھاتے نہیں تھے۔ جیسے
 سانپ و گھریلا وغیرہ۔

الأَخْبَابُ: بوشاب یا سُخَّانُ۔

الخَبَّيْبُ: بواہر کار۔ بواہر شہ۔

الخَبَّيْبِيُّ: بُرَائِي پلیدی۔

الخبیر۔ روئی۔ خُبیر الغراب: ایک قسم کی باتات جس میں روئی کی مانند گول گول نکلیاں نکلتی ہیں۔

الخبیر پست جلد۔

الخبایر۔ قا۔ روئی والا۔

الخبیر۔ بکی ہوئی روئی۔ ثرید۔

الخبازة۔ نامائی کا پیشہ۔

الخباز۔ نانباکی۔

الخبازی والخباز والخبیزة والخبازة۔

خبازی (ایک دوکان نام)

خبس (ن) خبسا وخبس وخبس۔

الشئی لے لینا۔ غنیمت حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے

”خبس فلانا حقه“ فلاں نے اس کے حق کو مار

لیا۔ اخبس ماله جاتا رہتا۔

الخباس والخباش والخبس۔ شیر۔

الخبوس۔ شیر۔ ظلم کرنے والا۔

الخباسة۔ وہ چیز جو ظالم لے جائے۔

(والخباساء غنیمت۔

خبس (ن) خبسا وخبس۔ الاشیاء من

ههنا وههنا: ادر ادر سے جمع کرنا۔

الخباش۔ کمالی کرنے والا۔

خباشات۔ العنقش: زندگی بسر کرنے کی

چیزیں جیسے کھانا کپڑا وغیرہ۔ خباشات الناس:

مختلف قوموں کی جماعت۔

خبص (ض) خبصا۔ الشئی بالشئی: ملانا)

خبص وخبص وخبص۔ کجیور اور

کھی کا حلوا بنانا۔ اخبص الزجلی: اپنے لیے

کجیور اور کھی کا حلوا بنانا۔ کجیور کھی کا حلوا کھانا۔

الخبص والخبیصة۔ کجیور اور کھی کا حلوا۔

المخبصة۔ کڑھائی میں حلوے کو آٹے لٹنے پلٹنے کا

چھپ۔

خبطة (ض) خبطا۔ زور سے مارنا۔

الشئی: سخت روندنا۔ اللیل: شیرھا

شیرھا چلنا۔ کہا جاتا ہے ”اِنَّه یخبط خبط

عشواء“ وہ روتندی والی اونٹنی کی طرح شیرھا

شیرھا چلتا ہے۔ یعنی امور میں بغیر بصیرت کے

تصرف کرتا ہے ”وما اذری ائی خابط لیل

هو“ میں نہیں جانتا کہ گناہ رات میں آنے والا

واحد (خبوة) ج خبیر۔

الخبیر۔ مہ۔ بڑا توشہ دان۔ زیادہ دودھ والی

اونٹنی۔

الخبیر۔ مہ۔ ظلم۔ تجربہ۔ آزمائش۔ کہا جاتا ہے

”صلق الخبیر الخبیر“ آزمائش نے خبر کی

تصدیق کر دی۔ زجیل خبیر وخبیر: خبر کا جاننے

والا۔

الخبیر۔ خیر ج اخبار و اخباری۔

الأخباری۔ تاریخ کی تدوین کرنے والا مورخ۔

الخبیراء۔ بڑا توشہ دان۔ بیری کے درختوں کو

آگے والی زمین۔ ج خبازئی و خباز و

خبیراوات۔

الخبیرة۔ مہ۔ بکری جس کو لوگ مختلف قیمت

دے کر خریدیں اور پھر آپس میں تقسیم کر لیں اور

ہر ایک کو اس کی قیمت کے لحاظ سے لے۔ زیادہ

ثرید۔ خوراک وغیرہ جو اہل و عیال کیلئے خریدی

جائے۔ کہا جاتا ہے ”اجتمعتوا علی خبیرتہ“ وہ

لوگ اس کے کھانے پر جمع ہو گئے۔ سالن

الخبار۔ نرم زمین۔ جزیں۔ واحد (خبازة)

الخبیر۔ واقف۔ آگاہ۔ دانہ۔ کسان۔ ج خبیراء

کھین۔ اونٹ کے بال۔ گرے ہوتے بال۔ واحد

(خبیرة) ج خبائر۔ الخبیر: اونٹ کے منہ کی

جھاگ۔

الخبیر۔ شیر۔

الخبایر۔ ایک درخت کا نام۔ راس العین اور

فراٹ کے درمیان ایک ندی کا نام۔

المنخبر والمنخبرة والمنخبرة۔ آگاہی جو خبر

یا آزمائش سے حاصل ہو۔

الخبیرئی۔ کالا سانپ۔

الخبیر جل۔ گلگ۔

خبیر (ض) خبیرا۔ الخبیر: روئی پکانا۔ القوم:

روئی کھلانا۔ کہا جاتا ہے ”خبیرتھم وتموتھم“

میں نے ان کو روئی کجیور کھلائی۔

خبیرة وخبیرة۔ مارنا۔ کہا جاتا ہے۔ ”خبطنین

پر جملہ وخبیرنی“ اس نے مجھ کو اپنے پیر سے

مارا۔

الخبیر۔ بڑا توشہ دان۔ زیادہ دودھ والی اونٹنی۔

کھیتی۔ پہاڑ میں پانی جمع ہونے کی جگہ۔ بیری یا

اراک کا درخت اور اس کے ارد گرد کی گھاس۔

المنخبة۔ سب فساد۔ کہا جاتا ہے: الکفر
منخبة لنفس المنعم ”ناشکری منعم کی طبیعت
کے لیے باعث فساد ہے۔

خبیر (ن) خبیرا۔ بالعصاء: لاشی سے

مارنا۔ الزجلی: گوز کرنا۔

الخبیر والخبیراء: بیوقوف۔

الخبیر والخبیراء: گوز۔

خبیر۔ الزجلی: ڈھیلے پیٹ والا ہونا

ہ: بیوقوف کرنا۔

خبیر۔ الشئی المضطرب: ڈھیلا ہونا

بذنبہ: موٹائی کے بعد رہا ہونا۔

الحیر: بکری کی تیزی کا نام ہونا۔

الخبیر۔ مینڈک۔

خبیر (ن) خبیرا وخبیرة۔ الشئی: آزمائش۔ تجربہ

سے جاننا۔

خبیر (ن) خبیرا۔ الارض: کھیتی کیلئے جوتا

الطعام: مرغن کرنا۔

خبیر (ک) وخبیر (ف) خبیرا وخبیرا وخبیرة

وخبیرة وخبیرة وخبیرة۔ الشئی و بہ:

حقیقت حال سے واقف ہونا۔

خبیرة وخبیرة۔ الشئی وبالشئی: آگاہ کرنا۔

خبر اور کرنا۔ کہا جاتا ہے ”الخبیرة خبیرة“ یعنی

اس نے اطلاع دی ہر اس چیز کی جو اس کے پاس

تھی۔

خبیرة۔ بٹائی پر رکھت جوتا۔ پروا کرنا۔ بعضوں

نے منفقہ کرنے اور بحث کرنے کے معنی میں

استعمال کیا ہے۔

خبیر۔ ایک دوسرے کو خبر دینا۔

خبیر۔ الامر: حقیقت حال سے واقف ہونا۔

خبیرة وامنتخبیرة۔ خبر دیانت کرنا۔ خبیر

القوم: بکری کو خرید کر ذبح کرنا اور اس کے

گوشت کو آپس میں تقسیم کرنا۔

الخبیر۔ الشئی: آزمائش۔ حقیقت حال سے

واقف ہونا۔ لاهلیہ: اپنے گھروالوں کے

لیے کھانا لینا۔

الخبیر۔ بڑا توشہ دان۔ زیادہ دودھ والی اونٹنی۔

کھیتی۔ پہاڑ میں پانی جمع ہونے کی جگہ۔ بیری یا

اراک کا درخت اور اس کے ارد گرد کی گھاس۔

الخَبْنُ - في العروض: علم عروض کی اصطلاح میں سب خفیف سے ساکن کو حذف کر دینا۔ جیسے فاعلین سے فاعلین۔ رجل (خبن) مرد کہ جس کے اعضاء مٹے ہوئے ہوں۔

خَبَا (ن) خَبُوا و خَبُوا۔ خبت الناز او الحدة: بھٹنا۔ دھما پڑنا۔ کہا جاتا ہے "خبا لهُنہ" اس کے غصہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔

أخبى الناز: آگ بجھانا۔

خبى الشئ: چھپانا۔

أخبى وخبى و تخبى و استخبى۔ الخباء: خیمہ لگانا۔ استخبى الخباء: خیمہ میں داخل ہونا۔

الخباء: اون یا اونٹ کے بالوں کا خیمہ۔ بلی میں جو یاگیوں کا چمکلا۔ کلی کا خلاف ج اخبیة۔

خبت (ن) خبتا۔ الخبنا: الیہ: پیاپے تیزہ مارنا۔

أخبتہ: حصہ کم کرنا۔ أخبت الزجل: باپ کے ذکر پر شرمندہ ہونا۔

الخبث: بدن کی سستی۔

الخبث: گھٹیا ناقص۔

خبتا (ف) خبتا۔ عن كذا: روکنا۔ منع کرنا۔

أخبنا: خوف و فیرہ سے رنگ بدل جانا۔

من فلان: شرم ڈرایا لٹ کی وجہ سے چھپنا۔ لہ: فریب دینا۔ الشئ: اچک لینا۔

مفاضة (المختصة) بیابان جس میں راستہ نہ ملتا ہو۔

خترہ (ض) خترت: بڑی طرح سے بیوفائی کرنا۔

صفت (خترت و خترت و خترت و خترت و خترت) (ن ض) خترت او خترت او خترت: نبی بگڑنا۔

ختر (س) خترت: زہرا دا دا فیرہ پینے کی وجہ سے بے حس ہونا۔

خترت: ست و ڈھیلا ہونا۔ مرض و فیرہ کی وجہ سے ست ہونا۔

خترت الشئ: بے حس کر دینا۔

خترتة کلکے کلکے کرنا۔

خترتة: العجراؤ: ڈیلوں کے کھانے کی آواز۔

خَبْنٌ (ض) خبنقا: گوز کرنا۔ اپنے سے حقیر جانا۔

تخبى الشئ: بلند ہونا۔

الخبى: بست کو نلے والا مرد۔ تیز رفتار گھوڑا۔

خبلة (ن) خبلا و خبلة: خراب کرنا۔ بگاڑنا۔

ه الحزن: عقل کو تباہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "خبيل الحب قلبه" محبت نے اس کے دل کو تباہ کر دیا۔ یدہ: لچا کرنا۔ ه عن كذا: روکنا۔ منع کرنا۔ کہا جاتا ہے "خبيل عن فعل آیدہ" اس نے اپنے باپ کے رویے سے کوتاہی کی۔

خبيل (س) خبلا و خبلا: جنون لاحق ہونا۔ صفت (خبیل و أخبیل) خبيل الیڈ: لچا ہونا۔

أخبلة: نافقہ: عار سے پرہیز۔

أخبلتہ: عقل کو خراب کرنا۔ أخبلت الذابئة: جانور کا اپنی جگہ میں نہ ٹھہرنا۔

تخبلت الیڈ: لچا ہونا۔

استأخبلة: الابل: عار سے پرہیز کرنا۔

الخبيل: قرض۔ مکتفی۔ قند ()

والخبيل: ہاتھ پاؤں کی تباہی ج خبیل۔

الخبيل: ایک پرندہ جس کی آواز الو کی آواز کے مشابہ ہے۔ دھڑ (خبیل) بگڑا ہوا زمانہ۔

الخبيل: فساد۔ نقصان۔ ہلاکت۔ زہر قاتل۔ کہا جاتا ہے "هو خبيل علی اہلہ" وہ اپنے لوگوں کے ایسے بوجھ ہے۔

الخبيل: فسادی۔ شیطان۔ جن۔ کہا جاتا ہے۔ "صنعة الخبيل" اس کو جن نے دیوانہ بنا دیا۔

الخبيلان: رات دن۔

المخبيل: فاقہ خبیل۔ بغیر ارف لام کے زمانہ کے ناموں میں سے ہے۔

المخبيل: دیوانہ۔ تھوڑا سا۔ وہ شخص جو ورد کی وجہ سے اچھی طرح چل نہ سکا ہو۔

خبين (ض) خبنا و خبنا: الثوب: موڈ کرینا۔

الشاعر: شہر میں خبن واقع کرنا (دیکھئے الخبن) () و الخبن: الطقام: کپڑے کی تہ میں چھپانا۔

الخبين: الشئ: کپڑے کی تہ میں چھپانا۔

الخبنة: کپڑے کی تہ۔ خوراک جو دامن کی تہ میں لے جائے۔ ج خبن۔

کون ہے۔

الشیطان زیندا: دیوانہ کرنا۔ ه بخیر: بخیر جان پہچان کے دینا۔ البیعون: منہ کی چوڑائی میں لبادا لگانا۔ الشجرة: پتے جماڑنا۔

خبیط زکام ہونا۔ صفت (مخبوط)

تخبطة: زور سے مارنا۔ الشيطان زیندا: دیوانہ کرنا۔ البلاد: قند و فساد و لوٹ مار واقع ہونا۔ تخبط الشئ: روینا۔

أخبطة: زور سے مارنا۔ زیندا: بغیر کسی وسیلہ کے مانگنا۔ أخبط البلاد: قند و فساد واقع ہونا۔

الخبیط: ورقت کے پتے جو ڈنڈے سے مار کر گرائے جائیں۔

الخبطة: زکام۔ تلاب یا برتن کا تیرہ پانی۔ مشک میں بقیہ دودھ۔ حقیر چیز دیا لگی۔ ج خبیط و خبیط۔ کہا جاتا ہے "علیہ خبیطة من الخمال" اس کے اوپر جمال و خوبصورتی کا کچھ اثر ہے۔

الخبطة: ہر چیز کا کچھ حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ "کان ذلك بعد خبیطة من اللیل" یہ رات کے کچھ حصہ کے بعد ہوا۔ الخبیطة من الماء: پانی کا گھونٹ۔ ج خبیط۔

الخباط: غبار۔

الخباط: چرے کی چوڑائی میں لبادا لگانا۔ ج خبیط۔

الخباط: دیوانگی۔

الخبیط و الخبیط و الأخبیط: من الخبیل: زمین پر پاؤں مارنے والا گھوڑا۔

الخبیط: حوش جس کو اونٹوں نے پاؤں مار مار کر گرا دیا ہو۔ وہی جس میں تازہ دودھ ڈال کر ملا جلا دیا گیا۔

المخبیط و المخبیطة و المخباط: پتے جماڑنے کا ڈنڈا۔ و صوبی کی موگری۔

خبیط (ف) خبنقا: فی المكان: داخل ہونا۔

الشئ: چھپانا۔ کہا جاتا ہے "جاریة خبیطة ظلمة" کبھی اپنے آپ کو چھپانے والی اور کبھی ظاہر کرنے والی لڑکی۔ () خبیط (ع) الصبی: روتے روتے سانس رکنا۔

ہے "طَلَعَتْهُ فِي خَيْطَلَةٍ بَطْلِيَّةٍ" اس نے اس کے بیڑے پر نیزہ مارا۔ جِ خَيْطَلَاتٍ وَ خَيْطَلَاتٍ: الخَيْطَلَةُ: موٹی عورت۔
 خَيْمِ (س) خَيْمًا: موٹی یا چوڑی ناک والا ہونا۔
 صَفَتِ (خَيْمِ وَأَخْشَمِ) خَيْمَتِمْ أَخْلَافُ النَّاقَةِ: اونٹنی کے تھن کا بند ہونا۔
 خَيْمِ (ن) خَيْمًا: آنفہ: بچل رہنا۔
 خَيْمِ الشَّيْءِ: چوڑا کرنا۔
 الخَيْمَةُ: ناک کی چوڑائی یا موٹائی۔
 خَيْطِي (ض) خَيْطِيًا: البقر: گویا کرنا۔
 الخَيْطِي: گویا۔
 خَيْطَةٌ (ن) خَيْطًا: ہٹانا۔ دفع کرنا۔
 الخَيْطَلِبُ: پھاڑنا۔ چیرنا۔ بوجھلہ: پاؤں سے خاک اُڑانا۔ پَسْلَجُهُ: پائسٹانہ کرنا۔
 سَاعَدُهُ: گھما ہوا ہونا۔ المرأة: جماع کرنا۔
 اخْتَجَعَ: الجمل: بیچ کھاتے ہوئے تیر دوڑنا۔
 رِيحٌ (خَجْجُوجٌ) تیز ہوا۔
 خَجَجًا (ف) خَجَجًا: الزَّجْلُ: چھپ کے گھر میں داخل ہونا۔ اللَّيْلُ: رات۔
 المرأة: جماع کرنا۔
 خَجَجِي (س) خَجَجًا: شرم کرنا۔ بیوہ کہنا۔
 أَخَجَجَهُ: سوال میں اصرار کرنا۔
 تَخَجَجًا: دیر لگانا۔
 الخَيْجَاءُ: موٹاؤست۔ بیوقوف۔
 الخَيْجَرُ: کھانسی کی بدبو۔
 الخَيْجَرُ: بہت کھانے والا۔ بزول۔
 الخَجَجُ: دامن پھاڑیں پانی بننے کی آواز۔
 الخَيْجَفُ وَالخَيْجِيفُ: اوچھاپن۔
 خَجَجِلٌ (س) خَجَجَلًا: شرم سے سرگشتہ ہونے کا۔
 خَجَجِلٌ: صفت (خَجَجِلٌ وَ خَجَجِلَانٌ)۔
 الثَّوْبُ: کپڑے کے نیچے کا حصہ پھٹنا اور کشادہ ہونا۔
 النَّبَاتُ: بہت اور گھنجان ہونا۔ صفت (خَجَجِلٌ)۔
 البعيرُ بالخَجَجِلِ: بوجھل ہونا۔
 بِأَمْرِهِ: مشتبه ہونا۔ مین کھڈا۔
 نَجِحَ: ہونا۔ فی طلب الرِّزْقِ:۔
 سَتَ: ہونا۔

خَجَجَلُهُ وَأَخَجَجَلُهُ: شرمندہ کرنا۔ وَأَخَجَجَلِ النَّبَاتُ: لہساؤ گھنجان ہونا۔
 الخَجَجِلُ: شرم۔
 خَجَجِي (ض) خَجَجِيًا: العراب: بوجھلہ: پاؤں سے خاک اُڑانا۔
 خَجَجِي (س) خَجَجِيًا: شرم کرنا۔
 خَجَدَ (ن) خَجَدًا: فِيهِ العُصْرُبُ: بدھی پڑنا۔
 الارضُ: کھوڑنا۔
 خَجَدَتِ الخَيْدِيَّةُ: لَحْمُهُ: ڈبلا ہو کر جمی پڑنا۔
 لَحْمُهُ: ڈبلا کرنا۔
 خَدَاةٌ عَادَةٌ: کام میں مزاحم ہونا۔
 تَخَادَدًا: ایک دوسرے کی مزاحمت کرنا۔
 تَخَدَّدَ: لَحْمُهُ: لاغری سے جمی دار ہونا۔
 القَوْمُ: فرقتے فرقتے ہونا۔
 الخَدُّ: چھوٹی نری۔ طریقہ۔ لہساؤ رکھا۔ لوگوں کی جماعت۔ جِ أَخْدَةٌ وَخَدَادٌ وَخَدَانٌ: الخَدْمِيُّ: الوجہ: رخسارہ۔ جِ خَدُوْدٌ: الخَدَّةُ: لہساؤ رکھا۔ جِ خَدَدٌ: الأَخْدُوْدُ: لہساؤ رکھا۔ جِ: الأَخْدَائِدُ: الأَخْدَائِدُ: کوڑے کے مارنے کے نشانات۔ اور اسی سے ہے أَخْدَائِدُ الأَرِيشِيَّةِ فِي البِئْرِ: کنوئیں میں رسی کھینچنے کے نشانات۔
 المِخْدَةُ: چھوٹا تکیہ جس پر سوتے ہوئے رخسارہ رکھتے ہیں۔ سرانہ۔ تل کا پھار۔
 المِخْدَانُ: دونوں کچلیاں۔
 خَدَبَ (ن) خَدَبًا: جموت ہونا۔
 بالسَّنِيفِ: گوار سے مارنا۔
 هِ المِخْيَةُ: بڑھانا۔
 تَخَدَّبَ: درمیانی چال چلانا۔
 الخَدْبُ: لہسائی۔ کہا جاتا ہے "لِي لِسَانِي خَدْبٌ" اس کی زبان میں اوچھاپن اور حماقت ہے۔
 الخَدْبُ وَالْأَخْدَبُ: بیوقوف۔ لہساؤ۔ جلد باز۔
 سَيْفٌ خَدِبٌ: گوار قاطع۔
 طَعْنَةٌ أَوْ حَزْمَةٌ خَدِيبَةٌ وَخَدْبَاءٌ: سخت یا کشادہ زخم والی نیزہ کی بار۔
 الخَدِيبَةُ: لہسائی۔
 الخَدَابُ: بڑا جموت۔ دِزَعٌ (خَدْبَاءٌ) کشادہ

زره۔ الخَدْبَاءُ: بہرہ جانور جو کٹ کٹا ہوا۔
 خَدَجَتْ (ن) خَدَجًا وَ أَخْدَجَتْ: الدَابَّةُ: نا تمام پتہ کرنا۔ صفت (اخْدَجٌ وَ مُخْدَجٌ) وَ صفت مفعول خَدِيبٌ وَ خَدُوْدٌ وَ مُخْدَجٌ) اور خَدُوْدٌ کی جمع خَدُوْدٌ وَ خَدَجٌ وَ خَدَائِجٌ۔ أَخْدَجَ الشَّيْءُ: گھٹنا۔
 صَلَوَةٌ نَائِزَةٌ: کچھ کی گردنا۔
 خَدَجَتِ النَّاقَةُ: نا تمام پتہ کرنا۔
 الخَدَجُ: نقصان۔
 خَدِرَ (س) خَدَرًا: العَضْوُ: نمن ہونا۔
 العَيْنُ: غارش یا جھکا پڑ جانے کی وجہ سے آنکھ کا بھاری ہونا۔ الخَدْرُ: البِزْدُ: سخت ہونا۔
 النِّهَارُ: ہوا بند اور تیز گرمی ہونا۔
 خَدَرَ (ن) خَدَرًا: تھم ہونا۔ الطَّبِي: ریوڑ سے پیچھے رہ جانا۔ الأَسَدُ: عرینہ: ماند میں رہنا۔ بالمکان: اقامت کرنا۔ وَ خَدَرَ وَأَخْدَرَ: النَّبْتُ: پردہ میں رکھنا خَدَرَ وَأَخْدَرَ العَضْوُ: نمن و بے حس کرنا۔ أَخْدَرَ: بالمکان: اقامت کرنا۔
 مع اہلہ: اپنے لوگوں کے ساتھ قیام کرنا۔
 الأَسَدُ: جھاڑی میں رہنا۔ الأَسَدُ: عرینہ: کچھار کا شیر کو چھاپنا۔
 تَخَدَّرَ وَ اخْتَدَرَ: چھپنا۔
 الخَادِرُ: سست کامل۔ حیران۔
 الخَدِرُ: پردہ جو لڑکی کے لیے مکان کے گوشے میں لگا دیا جائے۔ لڑکی کیلئے مکان کا مخصوص حصہ۔
 شِرْكِي جھاڑی۔ رات کی تاریکی جِ أَخْدَارٌ وَ خَدُوْرٌ: جِ أَخْدَائِرُ۔
 الخَدِرُ: عسوکا بے حس۔ کالی، سستی۔ تاریکی۔ اندھیری جگہ۔
 الخَدِيرُ: بے حس عضو والا۔ لَيْلٌ خَدِيرٌ: تاریک رات۔ مکان خَدِيرٌ: پوشیدہ اندھیری جگہ۔ نہاڑ خَدِيرٌ: ہنناک دن۔
 الخَدَلُ: شیر کی جھاڑی۔
 الخَدْرَةُ: سخت تاریکی۔
 الأَخْدَرُ وَالْخَدَائِرِيُّ: تاریک رات۔
 الخَدَائِيُّ: کلابول۔
 الخَدَائِيَّةُ: عجب۔

خَذَف

خَدِم

خَرِب

۱۹۲

وَاسْتَخَذَ لَهُ: فروتنی کرنا۔ تابعدار ہونا۔

أَخَذَهُ: زبیل کرنا۔ تالچ بنانا۔

الْخَذَاءُ: نفس کی کمزوری۔

تَخَذَلْنَ (خَذَلْنَ): خذیلنا۔ الجرح: پیچہ پڑنا۔

الْخَذْرَةُ: پھرکی۔

تَخَذُوفٌ: جلدی چلنا۔ عہد بالسيف: جسم

کے اطراف کانٹا۔ الاناء: بھرتا۔

تَخَذَرَفَتْهُ: النوى: پھینک دینا۔ تَخَذَرَفَ

الثوب: پھینکا۔

الْخَذْرُوفُ: تیز چلنے والا۔ پھرکی۔

اس کو خُزْرَاةً بھی کہتے ہیں۔ اونٹوں کا گلہ۔ اونٹ

جو گلہ سے علیحدہ ہو گیا ہو۔ "تَرَكَتِ السِّيُوفُ

وَأَمْسَهُ خَذْرًا يَنْفُ" کھواروں نے اس کے سر کو

کھلے کر دیا۔ رجلٌ (مُتَخَذِرُوفٌ) ایسے اخلاق

والا تھرد۔

خَذَعٌ (ف) خَذَعًا وَخَذَعٌ: اللحم او

القرع: بغیر مدائکے ہوئے قاشیں تراشا۔

تَخَذَعٌ: کٹنا۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبُوا خَذَعِ

وَيَذَعُ" لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔

الْخَذْعَةُ: زمین وغیرہ کا کھلا۔

الْخَذْيَةُ: ایک قسم کا کھانا جو تیرہ سے تیار کیا

جاتا ہے۔

المِخْذَعَةُ: چھری۔

الْمِخْذَعُ: عیب۔

خَذَعَبٌ وَخَذَعَلٌ: البَيْلُغُ وَنَحْوُهُ:

پھانسیں کرنا۔

الْخَذْعُوثَةُ وَالْخَذْعُوثَةُ: پھانک۔ قاش۔

خَذَفٌ (ض) خَذَفًا: بالخصاصة ونحوها:

انگلیوں سے پھینکنا۔ گرجھن سے پھینکنا۔

تَخَذَفْتُ: عیناہ بالدموع: جلدی آنسو

بنانا۔

الْخَذَالَةُ: دیر۔

المِخْذَلَةُ: گوجھن۔ غلیل۔

الْخَذُوفُ: مِنَ الدَّوَابِّ: تیز رفتار جانور جو

دوڑنے میں کھری اڑائے جو چلنے میں پیروں کو

پیٹ تک اٹھائے۔ ج خَذُوفٌ۔

الْخَذْلَانُ: تیز رفتاری۔

خَذَقٌ (ن) ض) خَذَقًا: الدابة: تیز چلنے کیلئے

چھوٹا۔ البازي: بیٹ کرنا۔

الْخَلْقُ: گویر۔ لیر۔

تَخَذَلْنَ (ن) خَذَلًا وَخَذَلًا نَاوُ خَذَلْنَا: فلانناو

عنه: مد چھوڑنا۔ صفت (خَذِلٌ) ج خَذَلَالٌ۔

صفت مفعول (مَخْذُولٌ) ج مَخْذَالٌ نَلْ: خذلت

الطَّبِيئَةُ: برابوڑے علیحدہ ہو جانا۔ صفت (خَذِلٌ) و

(خَذُولٌ)

(تَخَذَلْنَا) عَنْهُ أَضْحَابُهُ: مد چھوڑنے پر آکسانا۔

ه: ہسپالی اور ترک جنگ پر آمادہ کرنا۔

تَخَذَلْنَا مَخْذَلَةً: مد چھوڑنا۔

تَخَذَلْنَا: القوم: باہم مد چھوڑنا۔ وَجَلَّاهُ:

ٹانگوں کا کمزور ہونا۔

الْخَذَالُ: زیادہ مد چھوڑنے والا۔

الْخَذَلَةُ: وہ شخص جس کی مد ہمیشہ چھوڑ دی

جاتے۔

الْخَذُولُ: بہت مد چھوڑنے والا۔

رجلٌ خَذُولٌ الرَجُلُ: وہ مرد جس کی ٹانگوں نے

کمزوری یا کسی آفت یا شرکی وجہ سے جواب دے

دیا ہو۔

تَخَذَمَ (ض) خَذَمًا وَخَذَمَ: الشئ: جلدی سے

کانٹا۔

تَخَذَمَ (س) خَذَمًا: نشہ میں ہونا۔ صفت

(خَذِيمٌ) کٹنا۔

خَدِمَ (س) خَذَمًا: تیز چلنا۔ کھلے کھلے

ہونا۔

أَخَذَمَ: زلت کا اقرار کرنا۔ ه الشراب:

مست کروانا۔

تَخَذَمَ الشئ: کھلے کھلے ہونا۔

الشئ: کلف سے کانٹا۔

إِخْتَذَمَ: طالع ہونا۔ الشئ: کانٹا۔

الْخَذْمُ ج خَذَمٌ وَ (الْخَذْمُ وَالمِخْذَمُ

وَالمِخْذَمُ)۔ مِنَ السِّيُوفِ: کانٹے والی

کھوار۔

الْخَذَامَةُ: چیز کا کھلا۔

المِخْذَمُ: کانٹے کا دوزار۔

خَذَا (ن) خَذَوًا وَخَذِي (س) خَذَيْ وَصِيلا

ہونا۔ لَحْمُهُ: گھسا ہونا۔ الاذن: کانٹا

ہوا ہوتا۔

إِسْتَخَذَنِي: تابعدار ہونا۔ فرمانبردار ہونا۔

الْأَخَذِيُّ: ڈھیلے کان والا۔ الاذن (خَذْوَاء) لکھے

ہوئے کان۔

خُزْرَانٌ (ض) خُزْرِيًّا: المَاءُ وَالرِيحُ: پانی کے

پہننے اور ہوا کے چلنے میں آواز ہونا۔ صفت

(خُزْرَانٌ) النَّايِمُ: خراسا لے لیا۔

خُزْرَانٌ (ض) خُزْرَاو خُزْرُوًّا: اوپر سے نیچے گرنا

خُزْرًا لِلَّهِ سَاجِدًا: سجدہ میں گر پڑنا۔

لِيُوجِبَهُ كَرَامًا: الرَّجُلُ: مرنا۔

عليه: غیر معلوم جگہ سے اچانک آ پڑنا۔

أَخْرَجَهُ خُزْرًا: كَرَامًا: کہا جاتا ہے "مَضْرَبَةٌ

بِالشَّيْبِ فَأَخْرَجَهُ" اس نے اسے کھوار کر کر گرا

دیا۔

إِنْخَرَّ: ڈھیلا ہونا۔

الخُزْرُ: کان کی جڑ۔ زمین کا وہ حصہ جس میں

سیلاب شگاف ڈال دے۔ ج حِجْرَةٌ

(۔ وَالْخُزْرِيُّ) بچل کا سوراخ۔

الخُزْرُورُ: بلی کی آواز۔ جگہ جس میں پانی اور

گڑھے ہوں۔

الخُرَيْرُ: مد۔ سونے والے کا خراٹا۔ دو ٹیلوں

کے درمیان پست جگہ۔ ج خُزْرَةٌ۔

الخُزْرَاءُ: بہت خراسا لے لینے والا۔ مؤنث

خُزْرَاءَةُ الخُزْرَاءَةِ: پھرکی۔

خُزْرِيٌّ (س) خُزْرًا وَخُزْرَاءَةً وَخُزْرَاءَةٌ

وَخُزْرُوًّا: پانسٹانہ کرنا۔ بیٹ کرنا۔ کہا جاتا ہے

"خُزْرِيٌّ يَتَّبِعُهُمُ الضَّبُّ" یعنی ان کے درمیان

دشمنی ہو گئی۔

الخُزْرَاءُ: ج خُزْرُوًّا وَ (الخُزْرَاءُ) بلیدی۔ پانسٹانہ۔

بیٹ۔

المُخْرَأَةُ وَالمُخْرَأَةُ وَالمُخْرَأَةُ: پانسٹانہ کی

جگہ۔ ج مَخْرَأَةٌ۔

خُزْبٌ (س) خُزْبًا وَخُزْبًا: البيئ: آجائز

ہونا۔ صفت (خُزْبٌ) مؤنث خُزْبَةٌ۔ (۔

خُزْبًا) الرَّجُلُ: پھٹے ہوئے یا چمڈے ہوئے

کان والا ہونا۔ صفت (أَخْرَبٌ) مؤنث خُزْبَاءُ۔

ج خُزْبٌ۔

خُزْبَةٌ (ض) خُزْبًا: ڈھانا۔ ہلاک کرنا۔ پھاڑنا۔

سوراخ کرنا۔

<p>کرتی ہیں۔ اس کا مفرد تُخْرُوبُ ہے (مخرب)</p> <p>نخارینب بالنون ہے)</p> <p>المخزید۔ کھانا ہماہور اور دودھ۔</p> <p>المخربز۔ خربوزہ۔</p> <p>ارض (خوینیس) سخت زمین۔ کہا جاتا ہے</p> <p>”ہو ما یفلک خزینتسا“ وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔</p> <p>خزینتس خزینتسۃ الكتاب او العمل بگاڑنا۔</p> <p>خزینتس۔ الخبط۔ تحریر جو بگاڑی گئی ہو۔</p> <p>خزینتس۔ الاشیاء۔ الگ الگ کرنا</p> <p>المال۔ لے کر چھینا ہو جانا۔</p> <p>المخزینتسۃ۔ جوان پر گوشت عورت۔</p> <p>خزینتی۔ چلنے میں جلدی کرنا الشقی۔</p> <p>کلوے کلوے کرنا العمل بگاڑنا۔</p> <p>النوب۔ بھاڑنا البیت۔ ایک دوسرے سے متعلق ہوتا۔</p> <p>المخزینتی۔ ایک قسم کی گھاس جس کی پتیاں بارگھ کے مشابہ ہوتی ہے اور دو قسم کی ہوتی ہیں سیاہ و سفید۔</p> <p>المخزینتی۔ سرخ گھاس۔ زمین سے پھینکا۔</p> <p>خورت (ان) خزوتنا۔ الأذن۔ سوراخ کرنا</p> <p>الارض۔ راستوں سے واقف ہونا۔</p> <p>خورت (س) مخورتنا۔ ہوشیار رہا ہر ہونا۔</p> <p>المخورت والمخورت۔ سوئی وغیرہ کا سوراخ۔ کہا جاتا ہے ”المخزینتی من خورت الإبرة“ و ”المخزینتی فی خورت القفاس“ سینہ کے نزدیک ایک چھوٹی ہڈی۔ ج۔ اخوات و مخزوت ذنب خورت: تحریر بھڑیا۔</p> <p>المخزینت۔ ماہر راہر جو بھگل دیکھان کے عملی راستوں سے بھی واقف ہو۔ ج۔ مخزینت و خورات۔</p> <p>المخزوت۔ واضح راستہ۔</p> <p>المخزوت۔ پھنپے ہوئے کان یا ناک یا ہونٹ والا۔</p> <p>المخزوات۔ بڑی کوکھ والی اور ڈھیلے گوشت والی عورت۔</p> <p>المخزوات۔ سرخ چھوٹی۔</p> <p>المخزوتی۔ رومی دیکھایا سلمان۔ مخزوتی الکلام:</p> <p>بے فائدہ گفتگو۔</p> <p>المخزوتۃ۔ جوتے کی نوک۔</p> <p>مخزج (ض) مخزوجا و مخزوجا۔ من موضعہ: لکنا۔ فی العلم: قائم ہونا</p> <p>بہ: لکنا۔ علیہ: جگ کیلئے لکنا</p> <p>الزینۃ علی الملک: سرکشی و بیعتاد کرنا</p> <p>الی فلان من ذینہ: ادا کرنا۔</p> <p>مخزجۃ۔ من المكان: لکنا</p> <p>الارض: خراج مقرر کرنا</p> <p>المسئلۃ: مسئلہ کی توجیہ کرنا۔</p> <p>الولد فی الأدب: منذب و تجرید کار بنانا</p> <p>العمل: ایک دوسرے کے مخالف مختلف قسم کے کرنا۔ العلام اللوح: کچھ لکھنا اور کچھ چھوڑنا</p> <p>الزاعیۃ المورق: کچھ چرنا کچھ چھوڑنا۔</p> <p>المخزج۔ الشقی: لکنا</p> <p>الرجل: خراج ادا کرنا</p> <p>الزاعیۃ المورق: کچھ چرنا کچھ چھوڑنا۔</p> <p>مخزج۔ السید عینہ: ہر مینہ رقم معین کی ادائیگی کا سہارا کرنا۔</p> <p>مخزج۔ الشوکاء: آپس میں تقسیم کرنا۔</p> <p>مخزج۔ الولد فی الأدب: تربیت یافتہ ہونا۔</p> <p>مفت مخرج۔</p> <p>المخزج۔ الشقی: استنباط کرنا۔ ایجاہ کرنا</p> <p>فلانا: نکلنے کو کہنا۔</p> <p>المخزج والمخزج۔ حیوان: سیاہ و سفید رنگ والا ہونا۔</p> <p>مفت (مخزج) مؤنث مخزجۃ۔</p> <p>المخزج۔ الشقی: استنباط کرنا</p> <p>ہ: لکھوانا</p> <p>المسئلۃ: حل کرنا</p> <p>المخزجۃ۔ الارض: بھتی کے قابل ہونا۔</p> <p>المخزج۔ خراج۔ بعضوں کے نزدیک مخزج اور مخزاج میں فرق ہے۔</p> <p>مخزج وہ ہے جو انسان کے عوض میں ہو اور مخزاج عام ہے۔</p> <p>مخزج۔ اول اول گھرنے وقت کا بول۔ ج۔ مخزاج۔</p> <p>المخزجۃ۔ مخزج کا اسم مرؤ۔ مخزوکا۔</p> <p>المخزج۔ مخزجی۔ ج۔ مخزجۃ۔</p>	<p>مخرب (ض) خزایۃ و خزایۃ و خزینا و مخزوتنا۔ چور ہونا۔ صفت (مخرب) مخزوتنا۔</p> <p>مخرب۔ البیت: ویران کرنا۔ اذعاناً</p> <p>المزادۃ۔ سوراخ کرنا۔</p> <p>مخرب۔ البیت: غیر آباد کرنا</p> <p>المکان: خالی ہونا۔</p> <p>مخرب۔ الذؤذۃ الشجرۃ۔ سوراخ کرنا۔</p> <p>المخزوب۔ الرجل: مصیبت سے غفلت دل ہونا</p> <p>الیہ: مشتاق ہونا</p> <p>الشقاء: سوراخ دار ہونا۔</p> <p>المخرب۔ ویران جگہ۔ بھاڑنا یا ہر کو نکلا ہوا کنارہ۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے ”ہو مخرب العظام“ یعنی اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے۔ ”وہو مخرب المخوف“ یعنی وہ خالی پیٹ ہموکا ہے۔</p> <p>”وہو مخرب الامانۃ“ یعنی وہ امانت دار نہیں ہے۔</p> <p>رجل (مخرب) بزدل مرد۔</p> <p>المخرب والمخزایۃ والمخزینۃ۔ سرین کا کڑھا۔ سوئی کا ناک اور بوتل بعض ہر گول سوراخ جیسے کان کا سوراخ۔ ج۔ مخرب و مخزوب و مخزوب۔</p> <p>المخرب والمخزینۃ والمخزینۃ۔ چرواہے کا تھیلا۔ دین کی خرابی۔</p> <p>المخزینۃ۔ چھٹی۔ عیب۔ لغزش۔ باعث شرم چیز۔</p> <p>دینی خرابی۔ کہا جاتا ہے ”ہو صاحب خزینۃ“ یعنی اس کے دین میں خرابی ہے اور اسی سے ہے</p> <p>”لحمی اللہ اذنانا الی کل خزینۃ“ اللہ تعالیٰ لعنت کرے کہ اس نے ہم کو دین کی ہر خرابی کے قریب کر دیا۔ ”وما زانیتا من فلان مخزینۃ فی ذینہ“ ہم نے فلاں کے دین میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ ج۔ مخزبات۔</p> <p>المخزینۃ والمخزینۃ۔ ویران جگہ۔ ج۔ مخزبات و مخزب و مخرب و مخزایۃ المخزینۃ: چور کی بیعت۔</p> <p>المخزایۃ۔ ویران۔ ج۔ مخزب و مخزایۃ۔</p> <p>مخزایۃ و مخزایۃ۔ الإبرة۔ سوئی کا ناک۔</p> <p>المخزوب والمخزوب۔ ایک درخت کا نام</p> <p>واحد مخزوب و یقول مخزوبۃ۔</p> <p>المخزایۃ۔ بزدلوں کے چمچے کے سوراخ۔</p> <p>شہد کے چمچے کے سوراخ جس میں کھیاں شہد جمع</p>
---	---

الخُرْج - مقلعة الخاء : تبن کا محصول۔
 جزیر - ج خُرْج و آخر جة و ج خُرْج -
 الخُرْج - پھوڑا پھنسی۔ واحد (خُرْجَة) ج
 خُرْجَات۔
 خُرْج و لَاج و خُرْجَة و لُجَة بہت نکلنے
 والا۔ بہت داخل ہونے والا۔ بڑا ہوشیار۔ جیلہ گر۔
 الخُرْج - ہر چیز کا ظاہر۔ نکلنے والا۔
 الخُرْجَة - الخراج کا مؤنث۔ ج
 خُرْجَات و خُرْج - الخُرْجَات : باقی لوگ۔
 جماعت سے نکلے ہوئے لوگ۔
 الخُرْجَة - بیرونی۔ وہ شخص جو بذات خود
 سرداری حاصل کرے بغیر اس کے کہ پہلے سے
 اس کے خاندان میں سرداری ہو یا ایسا شخص جو
 ڈیر اور باپ اس کا بزدل ہو اور اسی طرح اس
 گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے جو سابق ہو جائے اور
 اس کے ماں باپ ایسے نہ ہوں۔ بادشاہ کا باغی۔
 جماعت کا مخالف۔ مذہب خوارج کا مستحق۔
 الخُرْجَة - الخارِجَة - الخارِجی کا مؤنث۔ وہ منصب
 جس کے تعلقات دو سرے حکومتوں سے ہوں۔
 المَخْرَج و الخُرْج و المَخْرَج - تربیت
 یافتہ۔
 الخُرْج - مد - یوم الخُرْج - عید کا دن۔
 قیامت کا دن۔
 المَخْرَج - مد - نکلنے کی جگہ۔ پانچواں مقام۔ ج
 مَخْرَج - والمَخْرَج عند الفراء
 والصرہیین : منہ سے حرف نکلنے کی جگہ۔
 المَخْرَج - منہ نکلنے کی جگہ۔
 خُرْج - التامم : خراٹے لینا۔ النمز أو
 المنزور : آواز کرنا۔
 خُرْج - بطنہ : بڑے ہونے کی وجہ سے
 پتہ کا پتہ۔
 الخُرْج - پانی پینے یا ہوا پلنے کی آواز۔
 الخُرْج - گھرت سے برتا ہوا پانی۔
 خُرْد (س) خُرْدَاو خُرْدَت - الجارية :
 باکہ ہونا۔ دو شیر ہونا۔
 خُرْد و خُرْد - الزجل : زیادہ خاموش رہنے
 والا ہونا۔ کم گفتگو ہونا۔ زلت کی وجہ سے شرم کرنا۔
 خُرْدَالی اللہو : ناسل ہونا۔

الخُرْد و الخُرْدَة و الخُرْد - باکہ دو شیر۔
 شرمیلی۔ زیادہ خاموش رہنے والی لڑکی۔ ج خُرْد
 و خُرْد و خُرْد - صوت خُرْد : نرم آواز جس
 میں شرم و حیا کی آمیزش ہو۔ لؤلؤة خُرْد : ناستہ
 موتی۔
 الخُرْدَة - ناستہ موتی۔ ج خُرْد و خُرْد و
 خُرْد۔
 الخُرْدَة - معمول اسباب تجارت۔
 الخُرْد جی - خروہ بیچنے والا۔ معمولی تاجر۔
 باطلی۔
 الخُرْد اذی - شراب۔
 خُرْد - العمل : بگاڑنا۔ کلمہ عامیہ ہے۔ فصیح
 خُرْبِق ہے۔
 الخُرْد - ہر ج خُرْدِی (ذخیل)
 خُرْد - الطعام : اچھا حصہ کھانا۔
 اللحم : چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کا ٹکڑا۔
 الخُرْد - گوشت کے ٹکڑے۔
 لحم خُرْد (ذخیل) ٹکڑے ٹکڑے کیا ہو گوشت۔
 الخُرْد - رائی۔ واحد (خُرْدَة)
 خُرْد (س) خُرْدَا - الجلد : ستالی ہے سینا۔
 خُرْد (س) خُرْدَا - کمزوری کے بعد مضبوط کرنا۔
 الخُرْد - پوتھ جس کو لڑی میں پرو لیا جائے۔
 شیشہ کے چھدے ہوئے دانے پتھر کے ٹکڑے کا ٹکڑا۔
 (خُرْدَة) خُرْدَة الظھر : ریڑھ کی ہڈی کے ٹکڑے۔
 خُرْدَات المملک : شاہی تاج کے جواہر۔
 الخُرْدَة - سوراخ اور اس کا وہاگا۔ ج - خُرْد۔
 الخُرْدَة - موچی کا پیشہ۔
 الخُرْد - موچی۔
 طائر (مخُرْد) پر عمرہ جس کے بازوؤں پر نعلے
 ہوں۔
 المِخْرَج - ستالی۔ ج مَخْرَج۔
 خُرْس (س) خُرْسَا - گونگا ہونا۔ خُرْسَا : نکلنے
 سے چینا۔
 أْخْرَسَة اللہ : گونگا کرنا۔ أْخْرَسَت الارض
 و امتخرسنت : ناقابل زراعت ہونا۔
 خُرْس - علی النفساء : زچہ کو اس کی خوراک
 کھانا۔
 خُرْسَا - گونگا ہونا۔

تَخْرَسَت - النفساء : زچہ کو اپنے لئے کھانا
 تیار کرنا۔ اور اسی سے مش ہے "تَخْرَسِي یا
 نفس لا مَخْرَسَة لک" یعنی تو اپنا کام خود ہی کر
 کوئی اور کرنے والا نہیں۔
 الخُرْس و الخُرْسَا - بچہ کی پیدائش کا کھانا۔
 الخُرْسَة و الخُرْسَة - زچہ کا کھانا۔ اچھوانی۔
 الخُرْس و الخُرْس - مٹکا۔ ج خُرْس و
 الخُرْس : ناقابل زراعت زمین۔
 الخُرْسَا - مٹکا ہانے والا یا بیچنے والا۔
 الخُرْس - زچہ کہ جس کے لئے اچھوانی تیار
 کی جائے۔
 الأْخْرَس - گونگا۔ ج خُرْس و خُرْسَان و
 أْخْرَس مؤنث خُرْسَاء۔ لَبَن أْخْرَس : جتا ہوا
 دودھ کہا جاتا ہے۔ "وَأَلْمِي خُرْسًا أْخْرَسًا
 أْمْرَس" یعنی اُس نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور
 گفتگو نہیں کی۔
 الخُرْسَاء - مصیبت۔ بغیر گرج و چمک کے
 بادل۔ رجل (خُرْس) رات کو نہ سونے والا خرد۔
 خُرْسَة (س) خُرْسَا و خُرْسَة و خَارْسَة
 مُخَارْسَة و خُرْسَا و اِخْتَرْْسَة - خراش لگانا
 ہ الذباب : کاٹا۔ خُرْس و خُرْس
 الفصن : شئی کو ڈھرنے سے کھینچنا۔
 خَارْس الكلب : براگیٹ کرنا۔ خُرْس
 و اِخْتَرْْس لِعَالِيہ : بل بچوں کے لئے کمانی کرنا۔
 اِخْتَرْْسَت الجوزاء : ایک دوسرے پر حملہ
 کرنا۔ خَارْسَة الشئی و اِخْتَرْْس منہ
 الشئی : زبردستی لینا۔
 تَخَارْسَت - الكلاب : ایک دوسرے پر
 حملہ کرنا اور نوجنا۔
 الخُرْس - کھسی۔ واحد (خُرْسَة) گھر کا روی
 سامان۔ ج خُرْس و خُرْس۔
 الخُرْسَاء - براہ۔
 الخُرْسَاء - سناپ کی کینچلی۔ انڈے کا چھلکا۔
 غبار۔ خُرْسَاء الفصیل : موسم۔ شد کہ جس میں
 مڑھ کھیاں پڑی ہوں۔ ج خُرْسَاء۔
 المِخْرَس و المِخْرَسَا - مڑے ہوئے ترکا
 ڈنڈا۔ عوام اس کو بَعْمُخْرَسَة کہتے ہیں۔

<p>خوڑع کا چرکی شکل کا دم۔</p> <p>بنو مخروطہ: تک منہ کانوں۔</p> <p>الخوڑطین: منقش پروں والا پروانہ۔</p> <p>خوڑاطین۔</p> <p>الخوڑطل: ایک قسم کا لہ۔</p> <p>الخوڑظوم و الخوڑظم: سوڑ۔ جلدی نشہ لانے والی شراب۔ انگور کا پانی جو تلے سے پہلے نکلے۔ خراطیم القوم: سرداران قوم۔</p> <p>خوڑظمہ: سوڑ پرانا۔</p> <p>خوڑظم: ناک بلند کرنا۔ غضبناک ہونا۔ تکبر کرنا۔</p> <p>الخوڑظمان: لمبا۔</p> <p>الخوڑظمانی: لمبی ناک والا۔</p> <p>الخوڑاطین: کینچڑا۔</p> <p>خوڑعہ (ف) خوڑعہ: پھاڑنا۔</p> <p>خوڑع (س) خوڑعہ: الشئی: ٹوٹنا۔</p> <p>الخوڑع و الخوڑع: الخوڑع: الزجل: ست ہونا۔ ناقص رائے ہونا۔ کمزور جسم ہونا۔ انخوڑعت القناتہ: پھٹنا۔ کٹنے کٹنے ہونا۔</p> <p>خوڑع (ک) خوڑعہ و خوڑعہ: خوڑعہ: خوڑعہ: جوڑوں والا ہونا۔ صفت خوڑع و خوڑع۔</p> <p>خوڑع: الثوب: حعفر (کم) سے رکنا۔</p> <p>خوڑع: الشئی: پھاڑنا۔ پیدا کرنا۔ ایجاد کرنا اور اس سے (الخوڑعہ) ہے۔</p> <p>فلانا: خیانت کرنا۔ دھوکا دینا۔</p> <p>الدبابة: دوسرے کے جانور چند دن کام میں لانا اور پھر واپس کر دینا۔</p> <p>الخوڑعہ: سبے باکی۔</p> <p>الخوڑع: ارتعاش کا پودہ جس سے کسٹرائل تیار ہوتا ہے۔ ہر وہ پودہ جو نرمی سے دہرا ہو جائے واحد خوڑعہ۔</p> <p>الخوڑع: اونٹنی کی دیوا لگی۔ اونٹنی کی پیٹھ کی شکل۔</p> <p>الخوڑع و الخوڑع: الخوڑع و الخوڑع: من النساء: نزاکت سے جھک جھک جانے والی عورت۔ ج خوڑع و خوڑع۔ خوڑع: خوڑع۔</p>	<p>الامر: کسی کام میں لگانا۔ الزجل: جموٹ بولنا۔ الذلوفی البشر: لٹکانا۔ الابل فی الرعی: چرنے کے لئے چھوڑنا۔</p> <p>جاریتہ: جماع کرنا۔ پانسیہ: گوز کرنا۔ عبدہ علی الناس: ایذا رسانی کیلئے مقرر کرنا۔</p> <p>خوڑطہ (ن) و خوڑطہ: الدواء: اسال لانا۔ خوڑطت (س) خوڑط و خوڑطت: الشاقہ و التاقہ: بکری یا اونٹنی کو خوڑط کی بیماری لاحق ہونا۔ خوڑط الطعام: پھد لگانا۔</p> <p>نخوڑط: فی الامور: دلیری وغورسری کرنا۔</p> <p>الخوڑط: الجسم: لاغر ہونا۔ انخوڑطت الخوڑطہ فی السبلک: پروا جانا۔ انخوڑط فی المتکان: جلدی سے داخل ہونا۔ من لکنا الصقر: شکار پر ٹوٹ پڑنا۔</p> <p>بطن الانسان: پیٹ چلنا۔ کہا جاتا ہے۔ "انخوڑط علینا بالبیع" وہ ہمارے اوپر بخش گوئی کے ساتھ متوجہ ہوا۔</p> <p>الخوڑط: السیف: سونتا۔ العنقود: انگور کے گٹھے کو منہ میں رکھ کر بغیر دانہ کے نکالنا۔</p> <p>استخوڑط: فی البکاء: جموٹ جموٹ کے رونے۔</p> <p>الخوڑط: خراہ کا کام کرنے والا۔ بڑا جموٹا۔</p> <p>الخوڑط: سارے جسم کی کمزوری۔ جانوروں کی ایک بیماری جو ان کے تھن میں ہوتی ہے اور اس سے جہا ہوا دور وہ لکتا ہے۔</p> <p>الخوڑط: منہ زور جالور۔ ج خوڑط۔ بے عقلی و نادانی سے کاموں میں دخل دینے والا۔</p> <p>الخوڑطہ: خراہ کے کام کا پیشہ۔</p> <p>الخوڑطہ: برادہ۔</p> <p>الخوڑطہ: خمیلا۔ تلک کا نقشہ۔ اٹلیس۔ خوڑطہ کو خوڑطہ بھی کہتے ہیں اور عربی مضمور یا مخفوط ہے۔</p> <p>الخوڑط: وہ بکری یا اونٹنی جس کو خوڑط کی بیماری لاحق ہو۔ ج مخوڑط۔</p> <p>الخوڑطہ: خراہ کرنے کا اوزار۔ ج مخوڑط۔</p> <p>الخوڑطہ: کم داڑھی والا۔ لمبا چہرہ جس میں عرض کم ہو۔ عند اهل المساحه: گاؤ۔</p>	<p>خوڑط: العمل: کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔</p> <p>الخوڑطہ: پھاڑکی چھوٹی چوٹی۔ ج خوڑط و خوڑط۔</p> <p>الخوڑطہ: گنگو کی گڑبڑی۔ حرکت۔</p> <p>(و الخوڑط) سخت زمین کہ جس میں چلنا دشوار ہو۔</p> <p>الخوڑطہ: ایک قسم کی نباتات۔</p> <p>الخوڑطہ: وادی یا ہموار زمین پر نکل ہوئی پھاڑکی ٹوک۔ بڑا پھاڑ۔ ج خوڑطہ۔</p> <p>خوڑط (ن ض) خوڑط: جموٹ بولنا۔ فی الامر: نکل سے کرنا۔ قیاس کرنا۔ اندازہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "خوڑط الخوڑطہ" اس نے درخت خرما کے پھلوں کا نکل سے اندازہ کیا۔</p> <p>خوڑط (ن) خوڑطہ: الشئی: درست کرنا۔</p> <p>خوڑط (س) خوڑط: بھوک و سردی والا ہونا۔ صفت (خوڑط و خوڑط)۔</p> <p>خوڑط و خوڑط: صحت لگانا۔ جموٹ بولنا۔ توشہ دان میں رکھنا۔</p> <p>الخوڑط: اندازہ۔ تم کہتے ہو "کم خوڑط ارضک" تمہاری زمین کا کیا اندازہ ہے۔ توشہ دان۔ چھوٹا تیزہ۔ بھلا۔ دکا۔ ٹوکری۔</p> <p>الخوڑط و الخوڑط: ج خوڑط و خوڑط۔ سوئے چاندی وغیرہ کا حلقہ۔ ج خوڑط و خوڑط: درخت خرما کی شاخ۔</p> <p>الخوڑط و الخوڑط و الخوڑط: شدت نکلنے کی لکڑی۔ ج اخوڑط۔</p> <p>الخوڑطہ: حصہ۔ زچہ کا کھانا۔</p> <p>الخوڑط: ٹھنڈا پانی۔ درختوں کی جڑوں میں جمع شدہ پانی۔ نہر کی ایک جانب۔</p> <p>الخوڑط: جموٹا۔</p> <p>الخوڑط: تیزہ۔ ج مخوڑط۔</p> <p>خوڑط (ن ض) خوڑطہ: الوردی: ہاتھ سے مار کر پتے جھاڑنا۔ العنقود: انگور کے گٹھے کو منہ میں رکھ کر بغیر دانہ کے نکالنا۔ الشجره: کھینچ کر پتے جھاڑنا۔ الخوڑط: خراہ سے ہموار کرنا۔ الخدیہ: عمومی یا منہ لمبا کرنا۔ الخوڑط: تھیلے میں جمع کرنا۔ البازی: شکار پر چھوڑنا۔ الزجل: فی</p>
---	--	--

خروف

خروق

خروق

۱۹۶

آسودہ زندگی۔ وجہ خروغ: کمزور فرد۔ ناقصہ خروغ و مخزوعۃ: اونٹنی جس کو پوراگی لاحق ہو۔

الخزعب والخزوب والخزوبۃ: یک سالہ درخت کی نرم و نازک شاخ۔ جوان خوبصورت نازک عورت یا سفید نازک اندام پُر گوشت عورت۔ الخرعوب: لمبا پُر گوشت فرد۔ الخرعوب: لمبی۔ بڑی۔ زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی۔

خروف (س) و خروف (ک) خروفا: بدھاپے کی وجہ سے قاسد المصل ہونا۔ صفت (خروف) مؤنث (خروف)۔

خروف (ن) خروفا و خروفا و خروفا و مخروفا: المزمز ہونا۔

خروفت: الارض: موسم خریف کی بارش ہونا۔ صفت (مخزوفۃ)۔ التہالیم: موسم خریف کا آنا یا ان کے چرنے کے لائق کھاس آگاہ۔

خروفہ: خروف (سار مصل) کی جانب نسبت کر۔

خزوفۃ مخزوفۃ و خزوفۃ: موسم خریف میں مٹلہ کر۔

خزوفۃ: بگاڑنا۔ قاسد کرنا۔ اخزوفت الشاة: موسم خریف میں بچہ دہا۔ اخروف الرجل: موسم خریف میں رائل ہونا۔ المزمز: پھل توڑنے کی ہمت آپہنچا۔

اخزوف: المزمز: چٹنا۔ فی مکان: موسم خریف میں اقامت کر۔

الخروف و الخزوف: بھلوں کے چپنے کا زمانہ۔

الخزوفۃ: بے مصلیٰ کی ہنسی لانے والی باتیں۔ الخزوف: کبریٰ کا پتھر۔ ج خروف و مخزوفۃ و خزوفان۔

الخزوفۃ: کبریٰ کا مہر بچہ۔ درخت خرما جس کا پھل توڑا جائے۔

الخزوفۃ: چٹا ہوا میوہ۔

الخزوف: موسم خریف۔ گرمی اور چالے کے درمیان کا زمانہ۔ موسم خریف کی بارش اور

نسبت کے لئے (خروفی و خروفی و خروفی) حتی ہوئی کجور۔

الخزوفۃ: درخت خرما جس سے تر کجوریں چنی جائیں۔

الخزوفۃ: باطل بات۔ ج خروافات۔ چٹا ہوا پھل۔

الخزوف: جمہولی نوکری۔ جس میں عمدہ کجوریں جن کے رکھی جائیں۔

الخزوفۃ: درخت خرما کی دو قطاروں کے درمیان کا راستہ۔ ج مخاروف۔ بدھاپے کی وجہ سے مصل کی خرابی۔

المخاروف: من الرجال: محرم۔

خزوفۃ: بست لینا۔

الخزوف و الخزوف و الخزوف: الخزوفیج: فراشی زندگی۔ الخزوفیج: ترو تازہ نرم۔

الخزوفیج: موٹا۔

خزوفش: الشش: بلانا۔ غلط کرنا۔

خزوف (ن) خروفا: اللوب: پھاڑنا۔

فلانا بالرمح: نیزہ مارنا۔ الکذب: جھوٹ گھڑنا۔ المغازاة: ملے کر کے اتنا تک پہنچنا۔ العاداة: عادت کے خلاف کرنا۔

البناء و فی البناء: روشندان کھولنا۔

الریح: تیز چلنا۔ الرجل: جھوٹ بولنا۔

خزوف (ن) خروفا: فی البیت: لگا تار قیام کر۔

خزوف (س) خروفا: خوف یا شرم سے وحشت زدہ ہونا۔ صفت (خروق)۔ فی البیت: لگا تار قیام کرنا۔ الغزائل او الطائر: اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔

خزوف (س) خروق (ک) خروفا: یوقوف ہونا۔ اور کام کرنا۔ صفت (خزوف) مؤنث خزوفاء۔

خزوفۃ: پھاڑنا۔ خزوف الرجل: جھوٹ بولنا۔

خزوفۃ: وحشت زدہ کر۔

خزوفی و الخزوفی و الخزوفی: مٹلہ و خزوفی الکذب: جھوٹ گھڑنا۔ خزوفی فی الکرم: بے

حد فیاض کرنا۔ خزوفت و انخزوفت الریح: تیز چلنا۔

الخزوفی: الارض: زمین میں ایک طرف کو بغیر راستہ کے چلنا۔ القوم: قوم کے درمیان سے چلنا۔ الکذب: جھوٹ گھڑنا۔

الخزوف: سورخ۔ کشادگی۔ بغیر کھاس پانی کا بیابان۔ کشادہ زمین جس میں ہوا میں تیز چلیں۔ ج خزوف۔

الخزوفی: ج اخواق و خزوفی و خزوف و الخزوفی (فیاض)۔ نخی۔

الخزوف و الخزوف و الخزوف: رائے کی کمزوری۔ نادانی و بیوقوفی۔ نخی۔ نومۃ الخزوف: حاشت کے وقت کی نیند۔ اس کو نومۃ الخزوف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس وقت سونے سے عبادت برہمتی ہے۔

الخزوفۃ: کپڑے کا ایک ٹکڑا۔ ج خزوفی۔

الخزوف: فہ۔ وہ چیز جو مختصائے عادت کے خلاف ہو۔ ج خزوفی۔

الخزوفی و الخزوفی: مٹلہ تیز ہوا۔

الخزوفی: نرم ہوا۔ ج خزوفی: وادی کا کشادہ حصہ۔ پانی بننے کی جگہ۔

الخزوفاء: اخزوف کا مؤنث۔ کشادہ زمین۔ تیز ہوا۔

الخزوفی: بے کھاس پانی کا بیابان۔ ج مخزوفی۔ مخزوفی کا استعمال عام طور پر بدن کے متنازع جیسے منہ، ناک و فیروہ ہوتا ہے۔

الخزوفۃ: جھوٹ۔

الخزوفی: خوبصورت بدن والا۔ فیاض۔ تجربہ کار۔ ج مخزوفی۔ المخزوفی: وہ کپڑا جس کو بت کر کے پھینکا کرتے ہیں۔

المخزوفی: تیز رفتار۔

المخزوفی: گزر گاہ۔ مخزوفی الریح: ہوا کے چلنے کی جگہ۔ اور کہا گیا ہے "مکان خاویٰ المخزوفی" یعنی ایسی جگہ جہاں کوئی گلے والا نہ ہو۔

الخزوفی: ایک چھوٹا سا پرندہ۔ ج خزوفی۔

خَزْوَةٌ (ن) خَزْوَمًا. شگاف ڈالنا۔ سوراخ کرنا۔
 مغرم الخَزْوَةَ: توڑنا۔ تاک کی درمیانی
 بڑی پھاڑنا۔ الاِثْرَةَ: تاک توڑنا۔
 عن الطريق: ہٹ جانا۔ کما جاتا ہے "خَزْوَمْتَهُ
 الخَزْوَادِمَ" یعنی وہ مر گیا۔ و "مَخْوَمْتِ وَنَهْ
 شَيْئًا": میں نے اس میں سے کچھ کم نہیں کیا۔
 خَزْمٌ (س) خَزْمًا۔ تنوں کے بیچ کی چھدی
 ہوئی بڑی والا ہونا۔ صفت (أَخْوَم)
 خَزْمٌ (ک) خَزْمَةً۔ شوخ و بیباک ہونا۔ صفت
 (أَخْوَمٌ وَخَرِيمٌ)
 خَزْمٌ۔ الخَزْوَةَ: سوراخ کرنا۔
 خَزْمٌ۔ ٹوٹنا۔
 خَزْوَمْتَهُ وَخَزْوَمْتَهُ: ہلاک کرنا۔ جڑ سے
 اکھیرنا۔ اخْتَرَمَهُ المَرَضُ: لاغر کرنا۔ خَزْوَمْتَهُ وَ
 اخْتَرَمْتَهُ المَيْتَةَ: اس کو موت نے لے لیا۔
 أَخْوَمٌ عَثًا: مرنا۔
 الْإِخْوَمُ: انْفَه: تنوں کے بیچ کی بڑی کا چھدنا۔
 کما جاتا ہے "إِخْوَمٌ ذَلِكَ القَزْنُ" یہ زبان ختم
 ہو گیا۔
 الْخَزْمُ: سہ۔ پھاڑ کی نکل ہوئی نوک۔ ج
 خَزْوَمٌ۔
 الْخَزْمَانُ: جموت۔
 الْخَزْمَةُ: تاک میں چھدنے کی جگہ۔
 الْخَزْمَاءُ: چھدا ہوا کان۔ عِزَّةُ خَرَمَاءُ:
 بکری جس کا کان عرض میں پھاڑو آ گیا ہو۔
 الْخَزْوَمَةُ: انسان کی تاک کا بانسہ یا دونوں
 تنوں کا درمیانی حصہ۔
 الْإِخْوَمُ: موزے کا کنارہ۔ شاہ روم کا لقب۔
 الْإِخْوَمَانُ: اوپر کے جڑے میں دو سوراخ دار
 پٹریاں۔
 الْمَغْرَمُ: پھاڑ کی نوک کا آخری سرا۔ ج
 مَعَارِمٌ: مَخَارِمُ اللَّيْلِ: رات کے ابتدائی
 حصے۔
 الْبِخْرِمِسُ: اندھیری رات۔
 خَزْمَشٌ: الْكِتَابُ: جتنا بگاڑنا۔
 إِخْوَمٌ مَقْصٌ: خاموش ہونا۔
 تَخَزَمَلٌ: الثَّوْبُ: پارہ پارہ ہونا۔
 الْخَزْمَلُ: بیوقوف عورت۔ جوان عورت۔

بڑھیا۔ لوگوں کا گروہ۔
 الْخَزْوَامِلُ: پراسے پکڑنے۔
 الْخِزْوُوصُ: سوراخ پکڑنا۔
 خَزْوَنَقَةٌ: بالسيف: گوار سے مارنا۔
 الْخِزْوَلِفُ: روٹی بہت دودھ والی اونٹنی۔
 الْخِزْوَالِفُ: لہبا۔
 الْخِزْوَالِقُ: جوان خرگوش۔ ج خَزْوَالِقٌ۔
 الْخِزْوَالِقُ: بادشاہ کے کھانے پینے کی مجلس۔
 نِعْمَانُ الْكَبِيرِ ابْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ کے محل کا نام جو عراق
 میں تھا۔ ایک نہایت۔
 خَزْوَانٌ (ن) خَزْوَانًا: الحائط: دیوار پر کائے رکھنا
 خَزْوَانٌ التَّمْرُ يَخْزُو: کچھ کٹا ہوا۔ صفت
 (خَزَانٌ) () وَخِزْوَةٌ بِالرَّمْحِ: نیزہ مارنا
 کما جاتا ہے "خَزْوَةٌ وَخِزْوَةٌ بَيْتَصْرَه": اس
 نے اس کو اپنی نگاہ میں رکھا۔
 الْخِزْوُ: ریشم۔ ریشم اور آن کا بنا ہوا کپڑا۔ ج
 خَزْوُوزٌ۔
 الْخِزْوُوزُ: زرخروش۔ ج خَزْوَانٌ وَخِزْوَةٌ۔
 الْخِزْوُوزُ: بہت ہی خشک مروج (مروج ایک کانٹے کا
 نام ہے)
 الْخِزْوَانُ: ریشم فروش۔
 الْمَخِزْوَةُ: خرگوش کی جگہ۔
 خَزْوَبٌ (س) خَزْوَابًا وَخَزْوَبٌ: الجملدُ: بغیر در
 کے سوچنا۔ صفت (خَزْوَبٌ)
 الشَّاةُ: سوچے ہوئے تنوں والی ہونا۔
 صفت (خَزْوَبَةٌ وَخَزْوَابٌ)
 الْخِزْوَبُ وَالْخِزْوَبَانُ: نرم گوشت۔ ایک
 گلے کو (خِزْوَبَةٌ وَخِزْوَبَانَةٌ) کہتے ہیں۔
 الْخِزْوَبَانُ: شتر مرغ کا بچہ۔
 الْخِزْوَبَةُ: سونے کی کان۔
 الْخِزْوَبَانُ وَالْخِزْوَبَانُ: مہنی علی الکسوة:
 ایک قسم کی کھیاں جو لافوں میں ہوتی ہیں۔ بلخ کی
 کھپوں کی چھتاہٹ۔
 خَزْوَزٌ (ن) خَزْوَزًا: کھپوں سے دیکھنا۔ چھلاک
 ہونا۔ صفت (خَزْوَزٌ)
 خَزْوَزٌ (س) خَزْوَزًا: عیالہ: تک آگہ والا ہونا۔
 صفت (أَخْوَزٌ) مؤنث خَزْوَزٌ ج خَزْوَزٌ خَزْوَزٌ
 الرِّجْلُ: بھانگنا۔

<p>اچھی طرح نافذ نہ ہوتا۔ الخساق۔ بڑا جموٹا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ذُو خَسَقَاتٍ فِي التَّبَعِ" وہ کبھی بیچ کو جاری کرتا ہے۔ کبھی فتح کرتا ہے۔ خَسَلَةٌ (ن) خَسَلًا۔ رُزِئِلَ كَرًا۔ دُور كَرًا۔ الخَسَالَةُ وَالخَسَالَةُ۔ ہر چیز کا رومی حصہ۔ الخسینیل۔ فرومایہ۔ رُزِئِلَ۔ ج خَسَالٍ و خَسَائِلٍ۔ الخَسَلُ وَالخَسَالُ۔ کینے و کمزور لوگ۔ المَخْسَلُ وَالْمَخْسُولُ۔ رُزِئِلَ۔ حَیْر۔ خَاسِيٌ مُخَاسَاةً وَأَخْسَى اِخْتِسَاءً خَسِيً تَخْسِيَةً ۵۔ اَعْرُوثٌ سَ باہم طاق و مَفْت کھیلنا۔ الخَسَا۔ طاق۔ ج الأَخْصَاسِي (خلاف قیاس) کہا جاتا ہے "خَسَا أَوْزُكَا" یعنی طاق یا بھت۔ الخِيسِي۔ اُون کا پھر ایسا خیر۔ خَسْ (ن) خَسًا۔ فِه: داخل ہونا السحاب: تھوڑی بارش برسا۔ زَيْدًا: نیزہ مارنا۔ البَعِير: اونٹ کی خشاش ڈالنا۔ (رکھے لفظ "خشاش") اِنخَسَ۔ فِه: داخل ہونا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ: گھل مل جانا۔ الخَسْ۔ ۵۔ تھوڑی بارش۔ شگاف۔ کھوری چیز۔ پیارے۔ الخس۔ نیلہ۔ الخَاسُ۔ قَا۔ الخَسُّ كَاوَادٍ بِمَعْنَى بِيَادٍ۔ الخَسَّاشُ۔ کینے کوڑے۔ پہاڑی سانپ۔ ایک قسم کی گلڑی جس کو اونٹ کی ناک میں ڈالتے ہیں۔ واحد (خَسَّاشَةٌ) غَضَب۔ کہا جاتا ہے "حَوَّكٌ خَسَّاشَةٌ" یعنی وہ غصبناک ہوا۔ خَسَّاشًا الشَّيْ: چیز کے دونوں کنارے۔ ج اِحْسَةٌ۔ الخَسَّاشُ۔ رومی۔ گھٹیا۔ بہادر۔ الخَسَّاءُ۔ گارے اور نکل والی زمین۔ ج خَسَّائَاتٍ وَخَسَّاشِيَةٍ۔ الخَسَّاءُ۔ کان کے پیچھے ابھری ہوئی بڑی۔ المَخْسُشُ۔ ڈیر مرد جو رات کی ہولناکیوں میں کام کرے۔ ڈیر گھوڑا۔</p>	<p>ترین فرد۔ خَسَفَ (ض) خُسُوفًا۔ المکان: دھنس جانا القَمَرُ: کمن لگنا۔ العَيْنُ: آنکھ کا جاتا رہنا یا اندر کو دھنس جانا۔ السَّقْفُ: گرتا۔ الشَّيْ: اکہ ہونا۔ الزَّجَلُ: ڈبلا ہونا۔ خَسَفَ فِي الأَرْضِ وَخَسِفَ بِهِ: زمین میں دھنسا (خَسَفًا) الشَّيْ: کاشا۔ العين: چھوڑنا۔ اللُّهُ الأَرْضُ: مَح ساری چیزوں کے دھنسا رہا۔ اللُّهُ الأَرْضُ يَفْلَاقُ: زمین میں دھنسا رہا۔ البئر: پتھر کی زمین میں کنواں کھودنا جو ہمیشہ جاری رہے۔ فَلَاقًا: ڈبل کرنا۔ ناپسندیدہ امر پر مجبور کرنا۔ خَسَفَ الشَّيْ فَخَسَفَ هُوَ: پھاڑنا اور پھنسا۔ (لازمی و متعدی) اَخْسَفَتْ وَاِنْخَسَفَتْ۔ عَيْثُ: اندھی ہونا الأَرْضُ: مَح ساری چیزوں کے دھنس جانا البئر: گرجانا۔ الخسف۔ ۵۔ عیب۔ زلت۔ کہا جاتا ہے "سَامَهُ خَسْفًا وَخُسْفًا" اس نے اس کو ڈبل کیا اور اس کو مشقت کی تکلیف دی۔ الخسف: کنوئیں کا سوت۔ الخساف۔ قَا۔ دھنس ہوئی آنکھ۔ ڈبلا۔ بیماری کی وجہ سے لاغر۔ جھوکا۔ ج خُسْفٌ۔ الخسف والخسف الخسوف اخروث واحد (خسفة) کہا جاتا ہے "بَاتُوا عَلَي الخسوف" انہوں نے فاتح سے رات گزاری۔ و "شَرِبْنَا عَلَي الخسوف" بغیر کچھ کھائے ہوئے ہم نے پیا۔ الخسيف۔ ج اَخْسِيفَةٌ وَخُسْفٌ وَ (الخُسُوف) ج خُسُوفٍ۔ مِّن الأَبَارِ: کنواں جو چٹان میں کھودا جائے اور اس کا پانی ختم نہ ہو۔ وَالخَسِيفُ مِّن العَيُونِ: دھنس ہوئی آنکھ مِّن الثُّوبِ: بست دودھ والی اونٹنی جس کا دودھ جائے میں جلدی ختم ہو جائے۔ مِّن السَّحَابِ: بست پانی کولے کر اٹھنے والا بادل۔ الأَخْصِيفُ وَالْأَخْصِيفُ۔ نَزَم زَيْنِبُ۔ الخَسِيفُ ج وَالخَسِيفُ جَعَةٌ۔ حَمْرٌ۔ الخَسِيفُ جَعَةٌ۔ بُولُ۔ بَرِيءٌ لَكْرِي۔ خَسَقَ (ض) خَسَقًا وَخُسُوفًا۔ النِّهْمُ:</p>	<p>اِسْتَخَسَهُ۔ رُزِئِلَ بِأَن تَحَارَت كَرًا۔ الخَسْ۔ خَس۔ خَسَّ الجَمَادِ وَخَسَّ البَقَرُ: روچنگی گھاس کے نام۔ الخسناس۔ ہر وہ چیز جس کو لوگ آپس میں دیر لیں۔ الخَسَنَاسَةُ۔ تھوڑا مال۔ الخَسِينِسَةُ۔ الخَسِينِسُ كَا مَوْنَسٌ۔ ج خَسَائِسُ وَخَسَائِسُ الأُمُورِ: حقیقت باتیں۔ شَيْءٌ (خَسَنَاسٌ وَمَخْسُونٌ) معمولی گھٹیا چیز۔ الخَسَانُ۔ ستارے جو غائب نہ ہوں۔ جیسے بیات النعش۔ خَسَأَ (ف) خَسَأً۔ الكلب: دھکارنا۔) خَسَأَ وَخُسُوعًا (ا) البصُرُ: چندھیاجانا۔ لَاحَ كَا تَهَكَّ جَانَا۔ وَخِيسِي (س) خَسَأَ وَ اِنخَسَأَ الكلب: دُور ہونا۔ دھکارا جانا۔ خَاسَا مُخَاسَاةً وَتَخَاسَاةً وَتَخَاسُؤًا۔ القوم: آپس میں ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔ الخِيسِي۔ گھٹیا اُون وغیرہ۔ الخِيسِي۔ قَا۔ مِّن الخَسَائِرِ وَالکِلَابِ: دھکارے ہوئے کتے و سور جو لوگوں کے قریب نہ آئے دیے جائیں۔ الخِيسِي۔ خِير۔ اُون کا ناہوا کھیل۔ خِيسِي (س) خَسْرًا وَخُسْرًا وَخَسْرًا وَخَسْرًا وَخَسْرًا وَخُسْرًا۔ اَنصَانُ اَمَّانًا۔ گمراہ ہونا۔ ہلاک ہونا۔ صفت (خَاسِرٌ وَخِيسِيٌّ وَ خِيسِرِي) خَسْرَ (ض) خَسْرًا وَخُسْرًا اَنًا۔ المِيزَانُ: کم کرنا۔ گھٹانا۔ المَالُ: ضائع کرنا۔ خَسْرَةٌ وَأَخْسَرَةٌ۔ اَنصَانُ کرنا۔ گمراہ کرنا۔ ہلاک کرنا۔ أَخْسَرُ الرَّجُلُ: نقصان میں پڑنا۔ أَخْسَرُ المِيزَانُ: گھٹانا۔ کم کرنا۔ الخَاسِرُ۔ قَا۔ تَكْرَةً خَاسِرَةٌ: غیر مفید حملہ۔ الخَسْرُ وَالخَسْرِيُّ۔ وہ شخص جو نقصان میں ہو۔ ج خَسْرًا۔ خُيسِعَ خَسْعًا۔ عَنه كَلْدًا: کسی سے کسی چیز کو دُور کیا جانا۔ خَاسِعُ الْقَوْمِ وَخِيسِعَتُهُمْ۔ قَوْمٌ كَا خِيسِ:</p>
--	--	---

الخشخش والخشخش - ہرن کا پتہ جو چلنے لگے۔

خَشَبَ (ض) خَشِبًا - الشئ بالشئ: ملانا الشئ: چھاٹنا: صاف کرنا

السيف: صیقل کرنا () والخشخش: الشعر: آدم کے مطابق بغیر نتیج کے اشعار کرنا۔

إخشب السيف: تلوار کو کڑی جیسا بنانا۔ خشب الشئ: موٹائی میں کڑی کی مانند ہونا۔

تخشب: چراگاہ سے سوکھی گھاس چرنا۔ السيف: تلوار کو کڑی جیسا بنانا۔

إخشوب: کڑی کی مانند سخت ہونا۔ افی عيشه: شہقت پر صبر کرنا۔

العشيب: موٹی کڑی - ج خشب و خشب و خشبان۔

العشيب والأخشيب: موٹا کھرورا - عيش خشب: ناپسندیدہ زندگی۔

العشباب: کڑی بیچنے والا - ج خشبہ العشباء: سخت زمین جس میں پتھر، ٹنگراور گارہ ہو۔

العشيب: من السيف: تلوار جو ابھی ڈھالی گئی ہو۔ صیقل کی ہوئی تلوار - روی - گھٹیا۔

صاف کی ہوئی چیز - من القسي: تراشی ہوئی کمان - ج خشب و خشائب۔

المخشوب: غلو و تب والا - وہ شخص جس کی تعلیم و تربیت اچھی نہ ہوئی ہو - وہ شخص جو اچھے طریقے سے کام نہ کرتا ہو۔

المخشاب: موٹا - پست قدم۔ الخشيل: سخت ٹیلہ۔

العشيق: کٹاں - رشیم - جو بظلمہ۔ خشخش خشخشة و خشخش: السيلاح أو الخيل: جھنکار ہونا - فلان بين الشجر وبين القوم: داخل ہو کر غائب ہو جانا۔

العشعاش: پوست کا پودہ - واحد (عشعاشة)

خشخ (ض) خشخا: دسترخوان پر روی چیز چھوڑنا - الشئ: کسی چیز سے اس کے

روی حصہ کو دور کرنا۔

خشبو (س) خشوا: بزدلی سے بھاگنا۔ حریص ہونا۔

العشبار والعشازة: ہرچیز کا روی حصہ - دسترخوان کا بچا کھپا - جو کاوانہ جس میں گوانہ ہو۔

زویل لوگ۔ خشبۃ الناس: زویل لوگ - واحد (الخاشب)

خشوب خشوبۃ: ادھر اور اہم کرنا۔ خشوبۃ الضیغ: کمانے میں چھوڑ کرنا۔

العشوم: شد کی کھیموں یا بھڑوں کی جماعت۔ شد کی کھیموں کی ملکہ - شد کی کھیموں کا چھت - نرم پتھر جس سے چونہ بناتے ہیں - ج خشبۃ۔

العشارم: موٹی آواز - بڑی تاک۔ خشخ (ف) خشخو غائلہ: فروتنی کرنا - عاجزی کا اظہار کرنا۔ صفت (خاشخ) ج خشخ و خشخة و خاشخون - بظنہ: پست کرنا -

بصرۃ: نگاہ کا پست ہونا - الصوت: آواز کا پست ہونا - الشمس: ڈوبنے کے قریب ہونا - الوزق: پتے مرجھا جانا -

الارض: بارش نہ ہونے سے خشک ہونا۔ خشخۃ: کسی کو فروتنی کرنے پر براگینت کرنا۔

خشخ: فروتنی کرنا۔ () و تخاشخ: فروتنی دکھانا۔

إخشخ: کسی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے فروتنی کرنا۔

الخاشب: نا - مکان خاشب: وہ جگہ جس کا راستہ نہ لے۔ بلدۃ خاشبۃ: وہ شہر جس میں اترنے کی کوئی جگہ نہ ہو۔ جذاذ خاشب: دیوار جو گر کر زمین کے ہوا ہو گئی ہو۔

الخشخۃ: پتہ جو مردہاں کے پیٹ کو پھاڑ کر نکالا گیا ہو۔

الخشخۃ پست ٹیلہ - ج خشخ۔ خشخ (ض) خشخا و خشخانا: ٹلک میں جانا اور غائب ہو جانا - رات میں چلنا - الماء: جنا - البرود: تیز ہونا () و الخشخ: فی الشئ: داخل ہونا۔

خشخ (ض) خشخاۃ: بالقوم: ساتھ چلنا اور

راہبری کرنا () خشخا و خشخۃ - الخلیل: برف چلنے سے آواز نکالنا - فی السیر: تیز چلنا۔

خشخ (س) خشخا: البعیر: پورے بدن پر خارش والا ہونا۔ صفت (أخشخ) مؤنث خشخاء - ج خشخ۔

خشخ: راستہ بتلانا۔ خاشخ: الی الشئ: برائی کی طرف سبقت کرنا۔ کہا جاتا ہے "خاشخ فی ذبیحہ" اس نے بد عہدی کرنے میں جلدی کی۔

خاشخ السہم: سنناٹہ سنائی دینا۔ أخشخت الظلمۃ: پتہ والی ہونا۔

الخاشب: نا - سيف خاشب: تیز تلوار۔ ماء خاشب و خشخ: جھاہو پانی۔

الخشف: بثلیث الخاء: ہرن کا نوزائیدہ پتہ - ج خشخۃ () و الخشف: سبز رنگ کی گھس - واحد خشخۃ)

الخشف والخشفۃ والخشفۃ: آواز۔ حرکت - آہٹ - الخشف: ذلت - الخشف والخشف: گھٹیا قسم کا آدمی۔

الخشف والخشيف: سخت برف - نرم برف۔ الخشوف: مجالات میں دخل دینے والا - من الرجال: رات کے وقت چلنے میں دلیر - تیز - من الشیوف: تیز تلوار۔

الخشاف: چگاڑو۔ المخشف: وہ جگہ جہاں پانی جم گیا ہو۔

المخشف: راہبر - معاملات میں دخل دینے والا۔ رات کے وقت چلنے میں دلیر - تیز۔

خشخۃ: (ن) خشلا و خشلۃ: حقیر بنانا۔ خشل الشراب: صاف کرنا۔

خشل (س) خشلا: الثوب: بوسیدہ ہونا۔ خشل زیل: ہونا - سر جھکانا - روی چیز لانا۔

الخشل والخشل: روی - الخشل: ہر جو نڈار چیز - خالی کیا ہوا اٹرا - واحد خشلۃ) کہا جاتا ہے - رجل (خشل فقل و خشل فیشل) کمزور مرد۔

خشخۃ (ض) خشخا: تاک کی بڑوڑنا۔ خشخ (س) خشخا و خشخا: چوڑی تاک

درخواست کرتا۔

الْخَصْبُ - بانس یا لکڑی کا مجموعہ۔ شراب پیچھے والے کی دکان۔ جِ الْخَصَاصِ وَخُصُوصِ وَخِصَاصِ - شہر (جخص) ناقص مینہ۔ الْخِصَاصُ - ناقص کی ضد۔ بیکلا۔

الْخِصَاصَةُ - عَامَّةً کی ضد۔ وہ چیز جس کو تم اپنے لیے خاص کر لو۔ خِصَاصَةُ الْمَلِكِ - بادشاہ کے مقرب لوگ۔ خِصَاصَةُ الثَّبَاتِ - بہاوت کی قوت و اثر۔ جِ خَوَاصُّ () وَالْخَوَاصُّ وَالْخُصَّانُ وَالْخِصَّانُ) مِنَ الْقَوْمِ - برگزیدہ اور بڑے لوگ۔ کہا جاتا ہے "إِنَّمَا يُفَعَّلُ هَذَا بِخِصَّانِ النَّاسِ" اس کو بڑے بڑے لوگ ہی کرتے ہیں۔

الْخِصَاصِيَّةُ - خاصہ کی جانب نسبت۔ جِ خِصَاصِيَّاتٍ وَخِصَاصِيصٍ - الْآخِصُّ - اطفال۔ کہا جاتا ہے "لَمْ يَكُنْ لِي أَطْفَالِيهِ آخِصٌّ مِنْ هَذَيْنِ"

الْخِصَاصَةُ - انگریزوں کے بعد تیل میں چھوٹے ہوئے دانے۔ تموزا۔ قلیل۔ جِ خِصَاصِ - الْخِصُوصِ وَالْخِصُوصِ - علیحدگی۔ اس کے مقابلہ میں عوم ہے۔ انحصار۔ اس کے مقابلہ میں اطلاق ہے۔ اور کہا جاتا ہے "عَلَى الْخِصُوصِ وَالْخِصُوصَاتِ" یعنی خاص طور پر جیسے حریری کا قول ہے۔ "لَنْ يُفَضَّلَ الْخَاطِرُ وَيَتَشَبَّهَ الْقَاتِرُ كَقَائِلَةِ الْهَوَاجِرِ وَخُصُوصًا فِي شَهْرِي نَاجِرٍ - الْخِصَاصِ - دروازہ کی جھری۔ برقع وغیرہ کا سوراخ۔ کہا جاتا ہے "يَتَدَرُّ الْقَمَرُ مِنْ خِصَاصِ الْغَيْمِ" چاند بادل کے درمیان سے ظاہر ہو گیا۔ "وَلَمَخْتُهُ مِنْ خِصَاصِ الثَّبَابِ" میں نے اس کو دروازہ کی جھری سے دیکھا۔ مکان وغیرہ میں شگاف۔ واحد (خِصَاصَةٌ) اور کہا جاتا ہے "سَدَدْتُ خِصَاصَةَ فَلَانٍ" میں نے فلاں کی کھٹائی ڈور کر دی۔

خَوْفِيَّةٌ - انسان، وہ شخص جو خدمت کرنے کے لیے مخصوص ہو۔ خَوْصَبٌ (ض) وَخِصَبٌ (س) خِصْبًا

الْعَيْشِيُّ وَالْعَاشِيُّ وَالْعَشْيَانُ وَالْعَشْيِيُّ - ڈرنے والا۔ مَوْنَتٌ خَاشِيَةٌ وَخَشِيَةٌ وَخَشْيَانَةٌ وَخَشْيَانًا - جِ خَشْيَانًا - الْعَيْشِيُّ وَالْعَشْيِيُّ مِنْ الثَّبَاتِ - خشک گھاس۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْمَكَانُ آخِشِيٌّ مِنْ ذَالِكِ" یہ جگہ اس سے زیادہ خوفناک ہے۔

الْعَشْيِيَّةُ - خوف۔ ڈر۔ کلیات میں ہے کہ خَشْيَةٌ میں خوف سے زیادہ سادہ ہے اس وجہ سے کہ خَشْيَةٌ "شَجَرَةٌ خَاشِيَةٌ" سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں سوکھارخت اور خوف "نَاقَةٌ خَوْفَاءُ" سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں تیار اُونٹنی اور ظاہر ہے کہ سوکھے درخت میں درخت کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے بخلاف تیار اُونٹنی کے کہ اس میں اُونٹنی کا خاتمہ نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے اور خوف کے معنی نقصان ہی کے ہیں۔ اور خوف خائف کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے بخلاف خَشْيَةٌ کے کہ جس سے ڈرا جائے اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

خِصْبٌ (ن) خِصْبًا وَخِصُوبًا وَخُصُوبَةً وَخِصُوبِيَّةً وَخِصْبِيَّةً وَخِصْبِيَّةً وَخِصْبِيَّةً - فَلَانًا بِ الشَّيْءِ : خاص کرنا۔ خصوصیت دینا۔ کہا جاتا ہے "خِصْبَةٌ بِالْوَيْةِ" یعنی اس نے اسی کے ساتھ محبت کی () خِصُوبًا، الشَّيْءِ : خاص ہونا۔ الشَّيْءِ لِتَفْسِيحِهِ : اپنے لئے چھٹا لیتا۔ خِصْبٌ (س) خِصَاصَةٌ وَخِصَاصًا وَخِصَاصَاءً - محتاج ہونا۔ خِصْبِيَّةٌ - الشَّيْءِ : خاص کرنا۔ ہ خِصْبِيَّةٌ : کسی کو کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا۔ الْغَلَامُ : لکڑی کے سرے پر آگ لے کر گھمانا۔ بَشِيٌّ گھمانا۔ اِخْتِصَبَ - محتاج ہونا۔ بِالشَّيْءِ : خاص ہونا۔ ه بِالشَّيْءِ : خاص کرنا اور اسی سے ہے۔ "الَّذِي يَخْتِصِبُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ" اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ تَخَصَّصَ - بِالشَّيْءِ : خاص ہونا۔ تَخَصَّصَ الرَّجُلُ : خاص لوگوں میں سے ہونا۔ اِسْتَخَصَّ - الشَّيْءِ : مخصوص ہونے کی

والا ہونا۔ الْاَنْفُ : بدبودار ہونا۔

خَيْشِيمٌ (س) خَشْمًا وَخَيْشِيمٌ وَأَخْشَمٌ وَتَخَشَّمَ - اللُحْمُ : بدبودار ہونا۔ خَشْمُهُ الشَّرَابُ : ناک کی جڑ میں شراب کی بوتلیج کر مست کر دینا۔

الْأَخْشَمُ - چوڑی ناک والا۔ بوجھوس نہ کرنے والا۔ أَنْفٌ أَخْشَمٌ : بدبودار ناک۔ مَوْنَتٌ خَشْمَاءُ جِ خَشْمٌ - الْعَيْشِيَّةُ - ناک کی جڑ۔ جِ خَيْشِيمِ - الْخَيْشِيَّةُ : ناک کے اندر کی رگیں۔ خَيْشِيَّةٌ الْجِبَالُ : پہاڑوں کی چوٹیاں۔ کہا جاتا ہے۔ "أَشْرَفْتُ خَيْشِيَّةً الْجِبَالِ" - الْخَشْمَاءُ - شیر۔ بڑی ناک والا۔ بڑا پہاڑ جس کی بڑی چوٹی نکل ہوئی ہو۔

رَجُلٌ (مَخْشُومٌ) مست مرو۔ خَشْنٌ (ك) خُشْنَةٌ وَخَشَالَةٌ وَخُشُونَةٌ وَخُشُونَةٌ - سخت و کھردرا ہونا۔ صفت (خوشین) جِ خِشَانٌ - خُشْنَةٌ - سخت و کھردرا ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ "خَشْنٌ صَدْرُهُ" اس نے اس کو عمرہ والا کر بھڑکایا۔

خَاشِيَةٌ - خنجی کا برتاؤ کرنا۔ تَخَشَّنَ - سخت کھردرا ہونا۔ سخت زندگی بسر کرنا۔ مونا کھردرا پنہنا۔ تَخَاشَنَ - بخلگت خنجی برتنا۔ اِسْتَخَشَنَ - الشَّيْءِ : کھردرا پانا۔ اِخْشَوْشَنَ - سخت کھردرا ہونا۔ عَلَيْهِ صَدْرُهُ : عُشْبَانٌ ہونا۔

الْخَيْشِيَّةُ - سخت طبیعت والا۔ الْاَخْشَمُ - سخت و کھردرا۔ مَوْنَتٌ خَشْمَاءُ - جِ خَشْنٌ - کہا جاتا ہے "رَجُلٌ أَخْشَمٌ" بڑے صل والا۔ "هُوَ أَخْشَمُ الْجَائِبِ" وہ دشوار طاقت سے زیادہ ہے۔ "كَيْبِيَّةٌ خَشْمَاءُ" بہت اختیار والی فوج۔

خَشِيَّةٌ (س) خَشْيًا وَخَشِيًّا وَخَشِيَّةً وَخَشَاةً وَخَشِيَانًا وَخَشِيَّةً وَخَشَاةً - ذُرْنَا - خَشَاةٌ تَخَشِيَّةٌ وَخَشَاةٌ - ذُرْنَا - خَشَاةٌ فَلَانًا : کسی سے خوف دلانا۔

خَضْرُوس (خَضْرُوسِز ہونا۔ الزُّرْعُ: سربز و شاداب ہونا۔
 خَضْرُون (خَضْرُوانِ الخَلِّ: کانا۔
 أَخْضَرُ الرِّئِیِّ النِّبَاتِ: سربز و شاداب کرنا۔
 خَضْرُ الشَّیْ: سبز کرنا۔
 خَاضِرَةٌ مُخَاضِرَةٌ: درخت کے اوپر ہی کچا پھل پھینچ دینا۔
 إِخْضَرُوْا وَ اِخْضُرُوْا: سبز ہونا۔ وَ اِخْضُرُوْا اللَّیْلُ: سیاہ ہونا۔
 اِخْتَضَرَ: الفَاکِہَةُ: وقت سے پہلے کچا کھانا
 العُشْبُ: سبز رہنے ہوئے کانا
 الجَارِیَةُ: بلوغ سے پہلے بکارت زائل کرنا۔
 اِخْتَضَرَ: جوان مرنا۔
 اِخْضَرُوْا وَ اِخْضُرُوْا: اس ذات گرامی کا نام جن سے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ اور اس کی کچھ تفصیل سورۃ کف میں ہے۔
 اِخْضِرُ: سبز۔ شئی: کھیتی۔ سبز ترکاری۔ سبزہ زار۔
 اِخْضَارٌ: نئی سبزی۔ زیادہ پانی ملا ہوا درود۔
 اِخْضِرُ: سبز۔ سبز ترکاری۔
 اِخْضَرَةٌ: سبز رنگ۔ ترکاری۔ زری و نازکی۔ کہا جاتا ہے۔ "عُضْرٌ فِیْہِ خُضْرَةٌ" شئی جس میں زری ہو۔ ج خَضْرُ وَ اِخْضَرُ وَ "خُضْرَةٌ الدِّیْنُ" کوڑے کی سبزی (ایسی چیز جس کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو اس کیلئے بطور کنایہ استعمال کرتے ہیں) وَ اِخْضَرَةٌ فِی الْوَانِ الْاِبْلِیِّ وَ الخِیْلِ: نیلا جس میں سیاہی ملی ہوئی ہو۔
 فِی الْوَانِ الثَّاسِیِّ: گندم گولنی۔
 اِخْضَارٌ: سبزی فروش۔
 اِخْضَارَةٌ: سبز ترکاریاں۔ خَضْرَاةٌ: سمندر کیلئے علم ہے اور تانیہ اور معرفہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔
 اِخْضَارِیٌّ وَ اِخْضَرِیٌّ: ایک قسم کا پرندہ جس کا رنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے اور اس کو اخیل بھی کہتے ہیں۔ ج خَضْرَایٌّ۔
 اِخْضَرَاءُ: اِخْضَرُ کا مؤنث۔ القُبَّةُ اِخْضَرَاءُ: آسمان۔ وَ خَضْرَاءُ الْقَوْمِ: قوم کا پانا

الخَضَابِ شمرغ جس کے بیج پر اور جس کی ٹانگیں موسمِ ربیع کی گھاس کھانے سے سرخ ہو گئی ہوں۔
 الخَضَبُ: درخت کی سبزی۔
 بارش کے بعد ترقی آئی ہوئی سبزی۔ ج خَضُوْب۔
 الخَضَابُ: رنگ۔ رنگ کرنے کی چیز۔
 الخَضْبَةُ: بہت خضاب لگانے والی عورت۔
 الخَضُوْبُ: بارش کے بعد ترقی لگی ہوئی سبزی۔
 الخَضِیْبُ: رنگا ہوا۔ کہا جاتا ہے "کَفَّ خَضِیْبٌ وَ اِمْرَاةٌ خَضِیْبٌ" رنگی ہوئی تمبلی۔
 خضاب لگائی ہوئی عورت۔ ج خَضْبُ: الکَفَّ الخَضِیْبُ: ایک ستارے کا نام۔
 المِخْضَبُ: کپڑے دھونے یا رنگنے کا برتن۔ لگن۔
 خَضَّضَ خَضَّضَةً: الماء و لحوہ: بلانا۔
 تَخَضَّضَ: بلانا۔
 الخَضَاخِضُ: مِنَ الْاَمَّاكِنِ: جگہ جس میں پانی و درخت زیادہ ہوں۔ بڑے پیٹ والا موٹا مرد) وَ الخَضَّضُ: پچھوئی اور پروائی کے درمیان کی ہوا۔
 خَضَدَ (ض) خَضَدًا: العود: بغیر جدا کئے ہوئے ٹوٹا۔ موزنا۔ الشَّجَرُ: کانٹے کانا
 الزَّجَلُ: کھڑکی گاجر وغیرہ کی مانند تریزہ کھانا۔
 خَضْدَةٌ: کانا۔
 تَخَضَّدُوْا وَ اِنْحَضَدُوْا: ٹوٹا۔ اِنْحَضَدَتِ السَّمَاوُ: بھلون کا پارہ پارہ ہونا۔
 الخَضَدُ: کانٹا ہوئی یا ٹوٹی ہوئی کھڑکی۔ پھلون کی پروردگی۔ نباتات کی کمزوری۔
 خَضَدُ البَدَنِ: کانٹا کے ساتھ بدن کا درد اور ٹوٹا۔ خَضَدُ الشَّفْرِ: کانٹا سرف (۔
 وَ الخَضَادُ: اعضاء کا درد۔
 الخَضَدُ وَ المَخْضُوْدُ: اٹھنے سے عاجز کمزور۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَخْضُوْدٌ" ریل سے عاجز مرد۔
 اَلْاِخْضَادُ وَ المِتَخَضِدُ: دوہرا ہونے والا۔
 المِخْضَدُ: بہت کھانے والا۔

والا۔ تثنیہ جمع اور مؤنث کے لیے بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "هُمَا وَ هُمَا وَ هِیْ خَضِیْبٌ" ج خَضُوْم وَ خِضَامٌ وَ اِخْضَامٌ الخَضَمُ: جانب۔ گوشہ۔ ج اِخْضَامٌ وَ خُضُوْمُ۔
 الخَضِیْمُ: جھگڑاؤ۔ ج اِخْضَامٌ وَ خِضَامٌ وَ خُضَمَانُ۔
 الخَضِیْمُ: ج اِخْضَامٌ وَ خِضَمُوْنٌ وَ (الخَضُوْمُ): جھگڑاؤ۔ مخالف۔ مد مقابل۔
 الخَضِیْنُ: کھاڑی۔ ج خُضْنٌ وَ اِخْضَنُ (مؤنث ہے) کبھی مذکر بھی استعمال کیا جاتا ہے) خَضِی (ض) خِضَاءٌ: خضی کرنا۔
 الخَضِی: فوطوں میں درد والا۔
 الخَضِیُّ: وہ شخص جس کے فوطے نکال لیے گئے ہوں۔ آختہ۔ ج خَضِیَّةٌ وَ خِضِیَانُ۔
 الخَضِیَّةُ: فوطہ۔ ج خَضِی: خَضِیَّةُ البَحْرِ وَ خَضِیَةُ الثَّغْلِبِ وَ خَضِیَةُ الْکَلْبِ: مختلف نباتات کے نام۔
 خَضَّضَ: الجَارِیَةُ: سفید مرے پنا کر سنوارنا۔
 خَاضَةٌ مُخَاضَةٌ: بیج بالعرض کرنا۔
 الخَضَّضُ: سفید مرے۔ رنگ برنگ کے کھانے۔ بیودہ گفتگو۔ کہا جاتا ہے "منطق خضض"
 الخَضَاضُ: کم حیثیت زورور۔ روشنائی۔ قیدی کی بیڑی۔ کتے یا بلی وغیرہ کے گلے کا پٹا۔ رَجُلٌ خَضَاضٌ وَ خَضَاضَةٌ: بیوقوف مرد۔ مکان (خَضِیْبُ) پانی سے تر جگہ۔
 خَضَبُ (ض) خَضْبًا وَ خَضَبُ الشَّیْ: رنگین کرنا۔
 خَضَبُ (ض) وَ خَضَبُ (س) خَضُوْبًا وَ خَضِبٌ وَ اِخْضَبُ الشَّجَرِ وَ الْمَكَانُ: سر سبز ہونا۔
 تَخَضَّبَ وَ اِخْتَضَبَ: بالجناء۔ رنگین ہونا۔ صفت (خَضِیْبُ) ج خَضَبُ وَ (مَخْضُوْبٌ وَ مَخْضَبٌ)
 اِخْضَرُوْا وَ اِخْضِرُوْا: الشَّجَرُ: سر سبز ہونا۔

خضع

خضف

خط

۲۰۴

<p>الخَضَلُ والخَضَلُ - صاف موتی - ایک قسم کے ہرے - واحد (خَضَلَةٌ)</p> <p>الخَضَلَةُ - تروانگی - آسودگی - نعمت - زندگی کا آرام و آسودگی -</p> <p>الخَضَيْلَةُ - سرسبز و شاداب باغ -</p> <p>المُخَضَّلُ والمُخَضَّلُ - آسودہ زندگی والا -</p> <p>الخَضَلُوفُ - گول گل کلورٹ -</p>	<p>أخضع - عاجز ہونا - عاجز کرنا - کما جاتا ہے "أخضعتهنَّ إليك الحاجتة" تمہارے سامنے حاجت نے مجھ کو عاجز بنا دیا -</p> <p>الکِبْرُ فَلَائِي: بڑھاپے کا کسی کو بہت گردن ہونا -</p> <p>خاضعةً نرى سے منگوا کرنا -</p> <p>تَخَضَّعَ وَاخْضَوْضِعَ - بخلاف عاجزی ظاہر کرنا -</p>	<p>حسد - ج خَضْرَآوَاتٍ - الخَضْرَآوَاتِ: ترکاریاں - میوے -</p> <p>الأخضْرَانُ - گھاس و درخت -</p> <p>الأخضِرُ - سونہ گوشت و شراب -</p> <p>الأخضِرُ - کسی - آگہ کی ایک بیماری -</p> <p>المُخَضَّرَةُ - بزرگوار -</p> <p>خَضْرَبَ خَضْرَبَةً - الماء: لبرس - ماء (خَضْرَابُ - لبریلینہ والا پانی)</p> <p>المُخَضَّرِبُ - فصیح و بلیغ مرد -</p> <p>الخَضْرِيَّةُ - بچ - کڑی خربوزہ وغیرہ کی قالیچ -</p> <p>الخَضْرَاعُ والمُخَضَّرِعُ - بچل جو تکلف سے بات کرتے -</p>
<p>خَضَمَ (ض) وَخَضِمَ (س) خَضَمًا - الطعام: انتہائی دائرہ سے کھانا - نہ بھر کے کھانا -</p> <p>أخضم - لہ فی العطاء: زیادہ دینا -</p> <p>الخَضْمَةُ - بڑا سمندر - سردار - بڑا فیاض (عورت کی صفت میں یہ نہیں آتا) بڑی جماعت -</p> <p>ساز رکھنے کا پھر سنیق خَضْمًا: ہمشیر بڑا -</p> <p>الخَضَامُ والخَضَامَةُ - وہ چیز جو انتہائی دائرہ سے کھالی جائے -</p>	<p>أخضع - عاجز ہونا - الصلوة: لوٹ پڑنے کیلئے سر جھکانا - فی سبیرہ: تیز چلنا -</p> <p>الخَضْعُ - سہ - پیدا ہونے کی گردن کی پستی -</p> <p>الأخضع: ذلت پر راضی - رہی ہوئی گردن والا -</p> <p>المُخَضَّعَةُ - ہر ایک سے عاجزی ظاہر کرنے والا -</p> <p>اپنے ہسر و غالب آنے والا - ج خَضَع -</p> <p>الخَضَعَةُ والخَضَعَةُ - تلواریں - کوڑے -</p> <p>تلواروں اور کوڑوں کی آواز - کما جاتا ہے "سبغتُ للبياتِ خَضَعَةً" میں نے کوڑوں کے پڑنے کی آواز سنی -</p>	<p>خَضْرَمَ - الأذن: کان کا کچھ حصہ کاٹ لینا -</p> <p>الخَضْرَمُ - بہت پانی والا کنواں - بہت بڑا سمندر - کما جاتا ہے "بخضر خضرم" بہت پانی والا سمندر - و "رجل خضرم" بہت فیاض مرد -</p> <p>ج - خَضْرَمُونَ - خَضْرَمُونَ و خَضْرَامَةٌ:</p> <p>الخَضْرَمُ: بیٹھے اور کھاری کے درمیان کا پانی گڑھ کا پتھر -</p>
<p>الخَضَيْمَةُ - سبز نباتات - بہت نباتات والی زمین - اُبلأوا گیوں -</p> <p>الخَضَيْمَةُ - درمیان - چیز کا بڑا حصہ -</p> <p>المُخَضَّمُ والمُخَضَّمَةُ - آسودہ زندگی والا -</p> <p>خَطَأً (ن) خَطَأً بِالْقَلَمِ: لکھنا -</p> <p>الخِطَّةُ لِنَفْسِهِ: نشان لگا کر اپنے لیے مخصوص کرنا -</p>	<p>الخَضَعَةُ - آواز جو جانور کے پیٹ سے سنائی دے - سیلاب کی آواز -</p> <p>الخَضَيْمَةُ - لڑائی کا شور - میدان جنگ اور اس کا غبار -</p> <p>الخِضْيَعُ - مِنَ الزَّجَالِ: ذلت پر راضی ہونے والا -</p> <p>خَضَفَ (ض) خَضْفًا وَخَضْفًا: گوز کرنا -</p> <p>صفت (خَضَيْفٌ وَخَضُوفٌ وَخَضَافٌ)</p> <p>الخَضْفُ - چھوٹا کڑوا یا کڑوی یا خربوزہ -</p> <p>الأخضف - ساپ -</p> <p>المُخَضِّفَةُ - شراب -</p>	<p>المُخَضَّرَمُ - غیر ممنون - وہ شخص جو خود کلاہو اور اس کا باپ سفید رنگ کا ہو - وہ شخص جو حسب کے لحاظ سے ناقص ہو - وہ شخص جس نے جاہلیت و اسلام کے زمانوں کو دیکھا ہو - مُخَضَّرَمُ الدُّوَلَتَيْنِ: وہ شاعر جو بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کی حکومتوں میں رہا ہو - نَالَهُ مُخَضَّرَمَةٌ: اونٹنی جس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو "مَاءٌ مُخَضَّرَمٌ: بیٹھے اور کھاری کے درمیان کلاہی -</p>
<p>الشَّيْءُ: کلمہ وغیرہ سے لکھنا - عَلَى الشَّيْءِ: نشان لگانا - علامت لگانا - العلام: سبز آغاز ہونا -</p> <p>عِدَارَةٌ: رخسار پر پال لگانا - القبر: کھودنا -</p> <p>الرِّيَاحُ الرُّمَلُ: دھاری ڈالنا -</p> <p>فِي الْأَرْضِ: لکیر کھینچنا - کما جاتا ہے "جَارَهُ فَمَا خَطَّ غَبَارَهُ" اس نے اس کا مقابلہ کیا اور گرد و کوبھی نہ پہچا اور کما جاتا ہے "فَلَائِي يُخَطِّفُ فِي الْأَرْضِ" لالاس اپنے معاملہ میں غورو فکر کر رہا ہے -</p> <p>خَطَّ الطَّعَامَ فِي الطَّعَامِ: تھوڑا کھانا -</p> <p>فِي نَوْبِهِ: خزانہ لینا -</p> <p>خَطَطًا: لکیریں کھینچنا -</p> <p>الخَطُّوفُ: نقش کرنا -</p> <p>الْبِلَادَ: حدود مقرر کرنا -</p>	<p>خَضِلٌ (س) خَضَلًا وَأَخْضَلُ وَأَخْضَلُ وَإِخْضَلُ وَإِخْضَوْضَلُ - تر ہونا - تنناک ہونا - صفت (خَضِلٌ وَخَضِيلٌ) کما جاتا ہے "عَشَّ خَضِيلٌ" شاداب زندگی - و "شَوَّاءُ خَضِيلٌ" اچھی طرح سے بھنا ہوا گوشت - و "بِسْتَانِ خَضِيلٌ" خون سے تر تیزہ -</p>	<p>خَضَعُ (ف) خَضُوعًا وَخَضَعًا وَخَضَعَانًا - عاجزی کرنا - فروتنی کرنا - سرگندہ ہونا - صفت (خَضَاعُ) ج خَضَعُ و (خَضُوعُ) ج خَضُوعُ - لہ: تابع و فرمانبردار ہونا - النجم: ناکل بخروب ہونا -</p> <p>الرجل: ساکن کرنا -</p>
<p>إِخْتَضَلَ: الوجہ او غیورہ: دھاری دار ہونا -</p> <p>الغلام: سبز آغاز ہونا - الارض او الدار: اپنا سلطون ہونے کیلئے حد بندی کرنا -</p> <p>خَطَلًا: معین کرنا - علامت لگانا -</p>	<p>خَضَلٌ وَأَخْضَلُ - الشئ: تر کرنا -</p> <p>إِخْضَالٌ وَإِخْضَالٌ - تر ہونا -</p> <p>الشجر: بہت نشی اور بکھرت پتے ہونا -</p>	<p>خَضَعُ (س) خَضَعًا - الزَّجْلُ: جھکا ہوا ہونا -</p> <p>صفت (أخضع) مؤنث خَضَعَاءُ -</p> <p>خَضَعَةً - عاجز کرنا - اللحم: کلنے کلنے کرنا -</p>
<p>إِخْتَضَلَ: الوجہ او غیورہ: دھاری دار ہونا -</p> <p>الغلام: سبز آغاز ہونا - الارض او الدار: اپنا سلطون ہونے کیلئے حد بندی کرنا -</p> <p>خَطَلًا: معین کرنا - علامت لگانا -</p>	<p>خَضَلٌ وَأَخْضَلُ - الشئ: تر کرنا -</p> <p>إِخْضَالٌ وَإِخْضَالٌ - تر ہونا -</p> <p>الشجر: بہت نشی اور بکھرت پتے ہونا -</p>	<p>خَضَعُ (س) خَضَعًا - الزَّجْلُ: جھکا ہوا ہونا -</p> <p>صفت (أخضع) مؤنث خَضَعَاءُ -</p> <p>خَضَعَةً - عاجز کرنا - اللحم: کلنے کلنے کرنا -</p>

الخطا۔ فا۔ جاروگر۔
 الخط۔ تحریر۔ کتابت۔ لہا راستہ۔ خط
 الاستواء: وہ فرضی خط جو کرۂ زمین کو دو حصوں
 شمال و جنوبی میں تقسیم کرتا ہے۔ ج خطوط۔
 وخطوط الکفیف: ہاتھ کی لکیریں۔
 الخط والخط۔ راستہ۔ سڑک۔ محلہ۔
 الخط والخط۔ وہ زمین کہ جس پر سب سے
 پہلے تم آئے اور تم سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ زمین
 کا وہ حصہ جو کوئی اپنے لیے خاص کر لے۔ ج
 خط۔
 الخط۔ کہا جاتا ہے "بَلِّغْ خُطْبَةَ لَيْسْتِ
 مِنْ بَالِي" یہ کام میری شان کا نہیں ہے۔ "وہی
 زایبہ خُطْبَةُ" اس کے سر میں کوئی خیال ہے۔
 ضلت۔ جالت۔ مشکل معاملہ جس کا کوئی حل نہ
 لے۔ ج خط۔ کہا جاتا ہے "فلا تَبْنِي خُطْبُ
 الْمَكَارِمِ" فلاں شرافت اور بزرگی کے مقامات
 کی بنیاد نہ رکھتا ہے۔
 الخطی۔ نیزہ جو خط کی جانب منسوب ہے۔
 اور بحرین کی ایک بندرگاہ کا نام ہے جہاں نیزے
 پکتے تھے۔ خُطْبَانَةٌ
 الخطوط۔ زمین پر پاؤں کا نشان چھوڑنے
 والا۔ عورت کے ایوروں کی چیز۔ جنگلی گائے۔
 الخطاط۔ بہت لکھنے والا۔
 الخطاط۔ کپڑے پر دھاری ڈالنے کی لکڑی۔
 الخطاط۔ دھاری دار۔ خوبصورت۔
 خطی (س) خطاً۔ غلطی کرنا _____ فی
 ذبیحہ: قصہ آیا بلا قصد غلطی کے راستہ پر چلنا۔
 _____ بخطاً وخطاً: گناہ کرنا۔ صفت (خطاطی)
 ج خطاطہ۔ مؤنث خطاطۃ ج خواتین۔
 خطاط (ف) خطاً۔ القِدْرُ بِذَلِّهَا: جھاگ
 پھینکا۔
 خطاطۃ تخطیثا وخطیثۃ: غلطی کی طرف
 نسبت کرتا۔
 الخطا الخطا وخطیثۃ: غلطی کرنا _____
 الطریق: چوک جانا _____ الرجل: غلطی میں
 ڈالنا _____ الراسی العرض: نشان پر نہ لگنا
 _____ فی عتبہ: راہ راست سے ہٹ جانا۔
 تخطأً وخطأً: غلطی کرنا۔ تخطأً

وخطأً: غلطی میں ڈالنا _____ السهم
 الزمیۃ: نشانہ سے ہٹ جانا۔ تخطأً لہ فی
 المسئلۃ وبہا: کسی کی غلطی ڈھونڈنے کے
 درپے ہونا۔
 الخطاء۔ گناہ۔
 الخطاء والخطا والخطاء۔ گناہ اور بقول
 بعض غیر ارادی گناہ۔ غلطی۔
 الخطاء۔ بہت غلطی کرنے والا۔ بہت گناہ کرنے
 والا۔
 الخطیثۃ۔ گناہ اور بقول بعض ارادی گناہ۔ ج
 خطایا وخطیثات۔
 خطب (ن) خطبۃ وخطباً وخطابۃ۔ وعظ
 کہا۔ تقریر کرنا۔ پیکرنا۔ حاضرین کے سامنے خطبہ
 پڑھنا۔ کہا جاتا ہے "خطب القوم و فی القوم"
 اس نے قوم کے سامنے تقریر کی۔
 خطب (ک) خطابۃ۔ واعظ ہونا۔ مقرر ہونا۔
 پیکر ہونا۔
 خطب (ن) خطباً وخطبۃ وخطیبی
 الفتاۃ: مگنی کرنا۔ صفت (خطاب) کہا جاتا ہے
 "خطب الفتاۃ علی فلان" اس نے فلاں کے
 لیے لڑکی کی مگنی کی۔
 خطب (س) خطباً۔ الشئی: تیرہ ماں سرخ
 زرد ہونا۔
 خطبۃ خطباً وخطابۃ وخطابینا: باہم
 گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے "خطبۃ فی فلان" اس
 نے اس سے فلاں کے بارے میں گفتگو کی۔
 خطب: الصید فلاناً: قریب ہونا _____
 الخطبۃ: رنگین ہونا _____ الخطب: زرد
 ہونا اور سبز دھاریاں پڑنا۔
 الخطب۔ الفتاۃ: مگنی کرنا _____ القوم
 فلان: قوم کی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی سے
 شادی کرنے کے لیے کسی کو بلانا علی المنبر:
 خطبہ دینا۔
 الخطب۔ م۔ حالت۔ کہا جاتا ہے "ما
 خطبیک" تمہاری کیا حالت ہے اور کس چیز نے
 تم کو اس پر برا سمجھتے کیا ہے۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا
 عموماً بڑے اور پائیدار معاملہ کے لیے مستعمل
 ہے۔ ج خطوب۔

خطل (س) خَطَلًا وَاخْطَلَ. فی کَلَامِهِ: بست بولنا اور نش بولنا۔ فی مَنْطِقِهِ اَوْرَاہ: غلطی کرنا۔ جیسے "إِصَالَةُ الزَّوای صَانِقِي مِنْ الْخَطَلِ" رائے کی اصالت نے مجھ کو غلطی سے بچایا۔

تَخَطَّلَ فِي الْمَشْيِ: تازا انداز سے چلنا۔ الخاطِلُ: باطل۔

الخطل۔ سہ۔ بیوقوفی۔ سکی۔ سرعت۔ بست رومی گفتگو۔ کہا جاتا ہے۔

"أَزَى فِي مَشْيِهِ خَطَلًا" میں اس کی حال میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ گفتگو پریشان۔

الخطیل۔ بیوہ گفتگو والا۔ بیوقوف۔ سہم خطل: نشانہ سے خطا کرنے والا تیر۔ قُوْبُ خطل: موٹا کھردرا کپڑا لہبائی کی وجہ سے زمین پر کھینچے۔ ج خطل اور کہا جاتا ہے "رجل خطل الیدین" سخت ہاتھوں والا مردو "ذمخ خطل" بے ذول لہبائیزہ۔

الخطیل: تیز اور جلدی تیزہ مارنے والا۔ جیسے "أَحْوَسُ فِي الْهَيْجَاءِ وَالذَّمْحِ خَطْلٌ" شجاع و بہادر لڑائی میں تیز اور جلدی تیزہ مارنے والا ہوتا ہے۔ خطل بالمعروف: دوادوہش میں جلدی کرنے والا۔

الأخطل۔ لمبے اور نلکے ہوئے کانوں والا۔ بیوہ گفتگو والا۔ سوت خَطَلًا ج خطل۔ الخیطل: کتا۔ ملی۔ مصیبت۔ عطر فروش۔ بُدِي دِل۔

خَطْمَةٌ (ض) خَطْمًا وَخَطْمَةٌ. بِالْخَطْمِ: کھیل لگانا۔ خَطْمَةٌ بِالْكَلامِ: خاموش کرنا۔ مغلوب کرنا۔ خَطْمُ الزَّجَلِ: ناک پر مارنا۔

خَطْمًا وَخَطْمًا، الْقَوْمُ بِالْقَوْمِ بِالْوَقْرِ: کمان پر تانت چڑھانا۔

إِخْطَمَ الْخَطْمُ: کھیل لگانا۔

الْمَخْطُمُ وَالْمَخْطُمُ: ناک۔ الخطم۔ سہ۔ ناک کا اگلا حصہ۔ چوچ _____ مِنْ الدَّابَّةِ: چوپایہ کی ناک اور منہ کے سامنے کا حصہ۔ اَمْرٌ عَظِيمٌ: بہاڑی چوٹی۔

الخطم۔ مہار۔ کھیل۔ کمان کی تانت۔ ج۔ خطم۔

رجبہ چیز کا مثل۔ کہا جاتا ہے "أَيْتَسُ لَمْ خَطِيئُوا" اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔

المخاطير۔ خطرے (اس کیلئے مفرد نہیں) الخظوب والخطاروب۔ اتر پرادز۔ جموٹا۔

خَطْرَفٌ وَخَطْرُفٌ: چلنے میں جلدی کرنا۔ صفت (خَطْرَيْفٌ وَخَطْرُفٌ) خَطْرُفَةٌ بِالشَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔

خَطْفٌ (س) خَطْفًا. الشَّيْءُ: اچک لینا۔ التَّبْرُقُ البَصَرُ: چندھا کر دینا۔

السمع: چوری سے سنا۔ خَطِيفٌ (س) وَخَطِيفٌ (ض) خَطِيفًا. تيز چلنا۔ صفت (خَطِيفٌ وَخَطِيفٌ)

خَطْفٌ: اچک لینا (شدید مبالغہ اور تکثیر کے لیے ہے)

أَخْطَفَهُ خَطَاكَرًا _____ هِ الْمَرَضُ: بیماری کا ہلکا ہونا یا بالکل زائل ہونا۔ الرَّجُلُ: کچھ تیار ہونا اور جلدی سے ٹھیک ہونا۔

تَخَطَّفَ وَاسْتَخَطَّفَ. الشَّيْءُ: چھین لینا۔ کھینچنا۔ کال لینا۔ اچک لینا۔

الخُطْفُ وَالخُطْفُفُ: لاغری اور پہلوؤں کا ڈبلا پن۔ الخُطْفَةُ: چھپنا۔ عضو جس کو درندہ چھپانا کر

آتا رہے یا انسان کسی زندہ جانور سے کاٹ لے۔ الخاطيف۔ نا۔ بھڑیا۔ تیر جو زمین پر پڑ کر نشانہ پر لگے۔ ج خَوَاطِفُ۔

أَخْطَفَ الخَشْيَ: ڈبلا۔ الخاطوف۔ درآتی کی مانند جس کو جال میں باندھ کر ہرن وغیرہ کا شکار کرتے ہیں۔

الخطاف۔ الخاطيف کا اسم مبالغہ۔ چور۔ شیطان۔ ابابیل کی مانند ایک پرندہ۔ الخطاف: آگس کی مانند ایک قسم کا ٹیڑھا لہب جس سے کسی چیز کو اچک لیا جائے۔ ج خَطَايِفٌ وَخَطَايِفٌ

السَّبَاعُ: درندوں کے چنگل۔ الخَطْفِيُّ وَالخَطْفِيُّ: تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَنْشِي الخَطْفِيُّ" وہ تیز چلتا ہے۔

الخُطْفَةُ: ایک قسم کا مہا جوتے میں دودھ ملا کر پکاتے ہیں اور پھر چھو سے جلدی جلدی کھاتے ہیں۔

ہوتا۔ صفت (خَطِيفٌ) ج خَطْرٌ. خَاظِرٌ مُخَاظَرَةٌ. بِنَفْسِهِ: خطرہ میں ڈالنا۔

عَلَى كَذَا: شرط لگانا۔ أَخْطَرُ. الشَّيْءُ فِي أَوْ عَلَى أَوْ بِبَالِهِ: یاد دلانا۔

ہ: بلند مرتبہ میں ہم مثل ہونا۔ المالُ: مال کو شرط رکھنا۔ التمرينُ: خطرہ میں ہونا۔ صفت (مُخَطِرٌ)

تَخَطَّرَى: چھانٹنا۔ تجاوز کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَخَطَّرَ بَنِي خُثُلَانَ" فلاں کا شر مجھ سے تجاوز کر گیا۔

تَخَاظَرُ القَوْمُ عَلَى الشَّيْءِ: شرط لگانا۔ الخَطَرُ: غلہ کا ایک بڑا پیانا۔ (_____ وَالخَطْرُ) اونٹ کے سرہوں پر بٹنگی اور چیشاب مل کر جموا ہوا دل جو سامنے ظاہر ہو۔

الخَطَرُ: بہت پانی ملا ہوا دودھ۔ بہت سے اونٹ۔ شرح۔ ایک قسم کی گاس جس کو بطور خضاب کے استعمال کرتے ہیں۔ ج أَخْطَارُ۔

الخَطَرُ: قریب ہلاکت۔ ج أَخْطَارُ۔ کہا جاتا ہے "زَكِيَّةُ الْأَخْطَارِ" وہ لوگ خطروں میں پڑ گئے۔ شرافت۔ بلندی۔ رجبہ۔ مثل۔ ہم پلہ (اور

ذی رجبہ چیز ہی میں استعمال ہوتا ہے) جیسے فنی ظِلُّ عَيْشٍ خَطِيفٌ مَالَةٌ خَطَرٌ. شرط جو گھوڑوں میں لگائی جائے۔ ج خَطَارُ۔ ج خطر۔

الخُطْرَةُ: ایک بار۔ تم کہتے ہو "مَا لَيْتَهُ إِلَّا خُطْرَةً" میں اس سے ایک بار ملا۔

الخاطير۔ نا۔ امر یا تدبیر جو دل میں گزرے خیال اور بھی دل اور نفس پر بھی مجازاً اطلاق کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَ فِي خَطَايِرِي" میرے دل میں واقع ہوا۔ و "فَلَانٌ سَرِيفٌ الخاطيرُ" فلاں تیز طبیعت ہے۔ و "جاش الشَّيْءُ فِي خَطَايِرِي" میرے دل میں شہری آمد ہوئی۔ ج خَوَاطِيرُ۔

الخَطَارُ: الخاطير کا اسم مبالغہ۔ عطر فروش۔ تیزہ مارنے والا۔ تیزہ۔ کوچمن۔ زیتون کا خوشبودار تیل۔ شیر۔

الخَطَاظَرَةُ: اونٹوں کا تازہ۔ الخَطِرُ: صلی مرتبہ۔ شریف۔ مہار۔ رتی۔

ترمرے۔ رات کی تاریکی۔ دھکی۔ شادمانی۔ بلند

پڑھنا۔ خَفَّافَةٌ: پست ٹنگو کرنا۔ خَفَّافَتٌ: پست
 بکلیت ضعف و سکون ظاہر کرنا۔
 الخَفْفَت: ایک قسم کی نباتات۔
 الخَفْفَتَان: چلتے (جنگ میں پہننے کا ایک لباس)
 (دخیل)
 الخَفَّافَت: بے پانی کا بادل۔ زرع خفافت:
 کمزور پودہ جو ابھی لمبائی نہ ہوا ہو۔
 الخَفْفَلُ وَالخَفْفَالِيل: کم عقل۔ ضعیف
 البدن۔ ج خفقال۔
 خَفِج (س) خَفَّجًا۔ البعیر: خفج کی بیماری
 لاحق ہوتا۔
 الخَفِيج: کمزور۔ سست۔
 الأَخْفَج: خفج کی بیماری والا۔ ٹیڑھے پاؤں
 والا۔ عموماً خفج: ٹیڑھا سوتا۔
 الخَفِيج: ناگموں میں لاکڑاٹھتا ہوتا۔
 خَفَّخَفَ خَفَّخَفَةً الخَفِيزُ او الصَّبْغُ:
 آواز کرنا۔ الزَّجَلُ قَبِيضَةُ الجَدِيدَةِ او
 القُرْطَاصُ: حرکت دینے سے آواز نکلتا۔
 الخَفَّخَفَ: وہ شخص جس کی آواز ناک سے
 نکلتی ہوئی معلوم ہو۔
 خَفَّدَ (ن) خَفَّدًا و خَفَّدَانًا و خَفَّدَ (س)
 خَفَّدًا: تیز چلانا۔
 الخَفَّدُ دَو الخَفَّدُ: ڈ۔ چگڑا یا چگڑا کر کے ماند
 ایک دو سرا پرندہ۔
 الخَفِّيدُ: تیز چلنے والا۔ شتر مرغ۔ ج خَفَّادِد
 و خَفَّادِيدُو خَفِّيدَات۔
 خَفَّرَ (ن) خَفَّرًا و خَفَّرًا: وہ وہو عَلَيَّ:
 پناہ دینا۔ حماقت کرنا۔ امن دینا۔ ہ: پناہ
 دینے کی اجرت لینا۔ خَفَّرَ بِالْمَهْدِ: وفا کرنا۔ عمد
 پورا کرنا۔ () خَفَّرًا و خَفَّرًا: فلائح: عمد
 توڑنا۔ بیوقوفی کرنا۔
 خَفَّرَات (س) خَفَّرًا و خَفَّرًا: الجَارِيَةُ:
 بت شرمیلی ہونا۔ صفت (خَفَّرٌ و خَفَّرَةٌ
 و مَخْفَرًا)
 خَفَّرَهُ: امن دینا۔ حماقت کرنا۔ شرمندہ کرنا۔
 کسی کے ساتھ رہ رہ کر بھیجنا۔
 خَفَّرَ: پناہ دینا۔ پناہ لینا۔ رہ رہنے کو کتنا۔
 تَخَفَّرَتِ الجَارِيَةُ: بت شرمیلی ہونا۔

خَفَّفَ: الشَّيْءُ: ہلکا کرنا۔ الحرف:
 مشدود کرنا۔ الثوب: باریک بنا۔
 أَخَفَّفَ: کم سامان والا ہونا۔ سبک حال ہونا
 الرجل: جمالت پر آگسٹا۔ عیب لگانا۔
 تَخَفَّفَ: چری موزہ پہننا۔ جلدی کرنا۔
 تَخَفَّفَ: ہلکا چمکانا ہونا۔
 اسْتَخَفَّفَهُ: ہلکا سمجھنا۔ جاہل سمجھنا۔ حق و صواب
 سے ہٹانا۔ ه الغناء: طرب و نشاط میں ڈالنا
 ه القُرْبُ:۔
 اسْتَخَفَّفَ بِهِ: حقیر بنانا۔
 أَخَفَّفَ: ہلکا۔ تھوڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے
 ”خَرَجَ لِي خَفِيفٌ مِنْ أَصْحَابِي“ وہ اپنے
 تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔
 الخَفْفُ: اللَّبِيْبِرُ و النَّعَامُ: اُونٹ اور شتر مرغ
 کی ٹاپ۔ چری موزہ۔ ج أَخْفَافٌ و خَفِيفٌ: کہا
 جاتا ہے ”خَفِيفٌ ضَالِحٌ“ پھٹا ہوا موزہ۔
 الخَفْفُ: قدم کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ سخت
 زمین۔
 الخَفْفَةُ: ہلکا پن (جسم میں ہو یا عقل میں یا عمل
 میں)
 الخَفِيفُ: ہلکا۔ پھرتلا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ خَفِيفٌ
 الرُّوحُ“ وہ لطیف الجھی صحبت والا ہو ”خَفِيفٌ
 القلبُ“ ذکی و ”خَفِيفٌ العقلُ“ بیوقوف و
 ”خَفِيفٌ الظُّهْرُ“ کم اولاد والا و ”خَفِيفٌ اليدُ“
 پھرتلا و ”خَفِيفٌ العَارِضِيْنُ“ دائرگی میں کم بال
 والا۔ ج أَخْفَافٌ و خَفِيفٌ و أَخْفَافٌ: الخَفِيفُ:
 علم عروض کی اصطلاح میں ایک بحر کا نام۔
 الخَفِيفُ: ذکی تیز فہم۔
 الخَفِيفُ: چری موزوں کا بیچنے والا۔
 الخَفُوفُ: بجز۔
 خَفَّافًا (ف) خَفَّافًا الشَّيْءُ: اُکبیر کر زمین پر چمکانا
 البيت: ڈھا کر گردانا۔ القُرْبَةُ:
 سبک کو پھاڑ کر زمین پر بچھارنا تاکر پانی جذب نہ ہو۔
 خَفَّتْ (ن) خَفَّتًا: الصوت: پست ہونا۔
 صفت (خَفِيفٌ و خَفِيفَةٌ): () خَفَّافًا:
 اچانک مرنا۔ () و خَفَّتًا و خَفَّافَتٌ
 و خَفَّافَتٌ: بکلامیہ و بصویہ: پوشیدہ رکھنا۔
 پست کرنا۔ آہستہ کرنا۔ بالقِرَاءَةِ: آہستہ

الخَفِيطِمُ: فا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ خَفِيطِمٌ أَمْرٌ
 يَتِيهُ فُلَانٌ“ فلاں بھول فلاں کا نام ہے اور ان کے
 معاملات کا تنظیم ہے۔
 الخَفَّامُ: اسم مبالغہ۔ مَسْكٌ خَفَّامٌ: ناک کو
 خوشبو سے بھروسے والی کستوری۔
 الأَخْظَمُ: لمبی ناک والا۔ کالا۔ مونث
 خَفَّامٌ: ج خَفَّامٌ۔
 الخَفِيطِيُّ: ایک قسم کی نباتات جو دو آؤں میں
 کام آتی ہے۔ واحد (خَفِيطِيَّة)
 خَفَّانٌ (ن) خَفَّانًا: قدموں کے درمیان کشادہ
 کر کے چلانا۔
 خَفَّانٌ و أَخْفَى: الرجلُ: قدموں کو کشادہ کر
 کے چلانا۔ خَفَّانِي عَنهُ الشَّيْءُ: زائل کیا جاتا۔
 تَخَفَّطِي تَخَفَّطِيًا و اِخْتَفَّطِي اِخْتَفَّطًا: ه إلى
 كَذَا: بھانڈنا۔ تجاوز کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔
 الخَفَّوَةُ: چلنے کے وقت دو قدموں کے
 درمیان کا فاصلہ۔ عوام اسے فسخہ کہتے ہیں۔
 مسافت۔ کہا جاتا ہے۔ قَوْبُ اللّٰهُ عَلَيْكَ
 الخَفَّوَةُ: اللہ تعالیٰ مسافت کو تمہارے لیے
 قریب کر دیں۔ ج خَفَّطِي و خَفَّوَات
 و خَفَّوَات و خَفَّوَات۔
 الخَفَّوَةُ: بمعنی خَفَّوَةُ خَفَّانًا اسم مرؤة
 لِي الْمَسَاحَةِ: چھ قدم۔
 الخَفِيفَةُ: گناہ۔
 خَفَّانِي خَفَّانِيًا خَفَّانِيًا: لَمْ يَخْفِهِ: گھما ہوتا۔
 أَخْفَى: الرجلُ: موتا ہونا۔ أَخْفَاهُ: موتا
 کرنا۔
 الخَفِي: گھٹے بدن والا۔ کہا جاتا ہے ”إِمْرَأَةٌ
 خَفِيَّةٌ بَطِيئَةٌ“ کھلی بدن کی عورت۔
 الخَفِيْلُ: بھیڑیا۔ چلاوہ۔ بغير آستينوں کی
 قیص۔ کہا جاتا ہے ”خَفِيْعَةٌ“ یعنی اس نے اس کو
 بغير آستينوں کی قیص پہنائی۔ اور (تَخَفَّلَ) اس
 نے بغير آستينوں کی قیص پہنی۔
 خَفَّ (ض) خَفًَّا و خَفَّفَةً: ہلکا ہونا۔
 خَفِيفٌ لِعَقْلِ: ہونا۔ کم سال والا ہونا۔
 المَطْرُ: کم ہونا۔ () خَفًَّا و خَفَّفَةً
 و خَفَّوًا: إِلَى العَدُوِّ: جلدی کرنا۔
 القَوْمُ: جلدی کوچ کر کے کم ہونا۔

کا گھوڑا (خَفِيفَةٌ اور خَفِيفَةٌ) میں آسانی کی نہیں
مبالغہ کی ہے۔) ج خَفِيقٌ وَ خَفِيقَاتٌ وَ
خَفِيقَاتٌ۔

الخَفِيقُ - نا۔ مکانِ خَفِيقٌ: انیس سے خالی
جگہ۔ زَجَلٌ خَفِيقٌ الْعَيْنِ: دھنسی ہوئی آنکھ
والا۔

الخَفِيقُ - اسم مبالغہ - خَفِيقُ الْقَدَمِ: وہ شخص
جس کے قدم کا گلا حصہ چوڑا ہو۔

الخَفِيقَةُ - ذر: امرؤَةٌ خَفِيقَةُ الْحَشَا: پتلی کر
والی عورت۔

الخَفِيقَانُ - پورب و پچیم۔
الخَوَافِقُ وَالْخَفِيقَاتُ: خافقہ کی جمع۔

جھنڈے - خَوَافِقُ السَّمَاءِ: ہوا چلنے کی چاروں
سمتیں۔

الخَفِيقُ - مہمیت۔ بہت تیز رفتار گھوڑا یا
اونٹنی۔ وسیع بیان جس میں سراب چمکتا ہوا
معلوم ہو۔

المُخَفَّقُ - ہموار زمین جس میں سیراب
حرکت کرتا ہو۔

المُخَفَّقُ - چوڑی گھوڑ۔
المُخَفَّقَةُ - کوڑا جس سے مارا جائے۔ اور
بقول بعض کڑی کا کوڑا۔

مخافق - النجم: ستاروں کے غروب ہونے
کی جگہیں۔

المُخَفَّقُ - مغرب - پاکل - دیوانہ۔
الخَفِيفُ - بھاگنے والا۔

الخَفِيفُ - پیٹ کلا میلا ہونا۔
الخَفِيفَانُ - بُدِيّ واحد (خفیفانہ)

الخَفِيفَانُ - شرمخ کے چوزے۔
الخَفِيفَانُ - ایک قسم کا نرم پتھر۔ یہ استعمال عوام
سے ہے فصیح لفظ "الرخفة" ہے۔

خَفَا (ن) خَفُوا وَ خَفُوا: اليرق: چمکتا
_____ الشئ: ظاہر ہونا۔

خَفَى (ض) خَفِيًا وَ خَفِيًا: الشئ: ظاہر کرنا۔
کما جاتا ہے "خَفِي الْمَطَرُ الْفَازَ" بارش نے
چوہے کو ٹیل سے نکال دیا۔ چھپا ہوا۔ پوشیدہ کرنا۔
(ضد)

خَفَى (س) خَفَاءً وَ خَفِيَةً وَ خَفِيَةً: پوشیدہ

تَخَفَضَ - الامرؤ: آسان ہونا۔
انْتَفَضَ - بلندی کے بعد پست ہونا _____
الصوت: پست ہونا۔

انْتَفَضَ - السم: بھاڑ گرتا۔
الخَفِيفُ - نا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں
سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ خَفِيفُ الطَّيْرِ"
وَ خَفِيفُ الْجَنَاحِ" وہ باوقار اور تحمل الزناج
ہے۔ مؤنث خَفِيفَةٌ. الخَفِيفَةُ: الزکیوں کی
تندرستی کرنے والی۔

الخَفِيفُ - مد () وَ الخَفِيفَةُ: آسودگی۔
فراخی کی زندگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خَفِيفٌ مِنَ
الْعَيْشِ" وہ آسودہ زندگی میں ہے۔
خَفَعَ (ف) خَفَعًا: بھوک وغیرہ سے چکرا کر
گرتا۔ خَفَعَهُ بِالسَّيْفِ: تلوار سے اڑتا۔ (خَفَعًا
وَ خَفَعَانًا) السست: ہلنا۔
أَخَفَعَهُ الْجُوعُ: چکرا کر گرا دیا۔
انْتَفَعَ: بیہوشی کے قریب ہونا۔
المُخَفَّقُ: دیوانہ۔
خَفَقَهُ (ن) (ض) خَفَقًا بِالسَّيْفِ: آہستہ تلوار
سے مارنا _____ التَّغْلُ: جوتے سے آواز لگانا
خَفَقُوا وَ خَفِقُوا وَ خَفِقَانًا) الفؤاد: دھڑکنا
_____ الرَّايَةُ: پھڑپھڑانا
خَفِقُوا) النجم: غروب ہونا _____
الليل: اکثر حصہ گزر جانا _____
الطائر: اڑنا
_____ الرجل: لمی البلاد: سفر کرنا
_____ المكان: خالی ہونا۔
أخفق: مضرب ہونا۔ حاجت میں ناکام رہنا۔
مردم ہونا _____ القوم: قوم کے گوشہ کا تم ہو
جانا _____ بزایبہ: اونگھ سے سر ہلانا _____
بشوبہ: کپڑے کو حرکت دے کر اشارہ کرنا
النجم: غروب ہونا _____ الطائر: بازو پھڑپھڑانا
_____ ہ: پھاڑنا۔
إخفق: العلم او السراب: جھنڈے کا یا
سراب کا ہلنا۔
الخَفِيفَةُ - خَفِقٌ كاسم مرقہ۔
الخَفِيفَةُ: کوئی چیز جس سے مارا جائے۔ جیسے تسمہ
وغیرہ۔
الخَفِيفُ وَالْخَفِيفَةُ وَالْخَفِيفُ وَالْخَفِيفَةُ پتلی کر

الخَفِيفَةُ - (بتثلیث الخفاء) رہبری۔ عمد۔
الخَفِيفَةُ: راہبری اُجرت۔
الخَفِيفَةُ: خفارة کے معنی میں اسم ہے۔ کہا
جاتا ہے "هو في خفرة الله" وہ اللہ کے ذمہ ہے
"هَذَا خَفِيفِي" یہ میرا رہبر ہے۔

الخَفِيفُ - پناہ دیا ہوا۔ پناہ دینے والا۔ حمایت و
حماکت کرنے والا۔ ج خَفِيفٌ: خَفِيفَةٌ۔
الخَفِيفَةُ - پناہ دینے والا۔
خَفِيفَةُ (ن) خَفِيفًا: شمشا کرنا۔
خَفِيفُ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ: تموڑا کمانا پینا۔
البناء: عمارت ڈھانا۔

خَفِيفُ (ض) خَفِيفًا وَ أخَفِيفٌ - بہت بد زبانی
کرنا۔
انْتَفَضَ - الماء: پانی کا خشک ہونا۔
تَخَفَضَ - الرجل: لیٹنا۔

شربت (مُخَفِّصٌ) جلد مست کرنے والی
شراب۔
خَفِيفُ (ن) خَفِيفًا: بہ پھینکنا _____
البناء: ڈھانا۔

خَفِيفُ (س) خَفِيفًا: کمزور ہونا۔ پیدائشی
کمزور نظر والا ہونا۔ تنگ آنکھ والا ہونا۔ روتوند والا
ہونا۔ صفت (خَفِيفٌ وَ أخَفِيفٌ)
خَفِيفُ الْبَدَنِ: بدن کا کمزور ہونا۔

_____ البناء: عمارت ڈھانا _____ الرجل:
پھاڑ کر کچل دینا _____ بالارض: زمین سے
چٹنا۔

الخَفِيفُ - چگور۔ ج خَفِيفٌ: ج خَفِيفٌ: ش
خَفِيفَةُ (ض) خَفِيفًا: پست کرنا۔ الصوت:
آہستہ کرنا _____ الكلمة: زبردیا۔ خَفِيفٌ
الصوت: آہستہ ہونا _____ بالمكان:
اقامت کرنا _____ الرجل: مرنا _____
الابل: آہستہ چلنا _____ الحاربية: خند کرنا۔

خَفِيفُ (ك) خَفِيفًا: العيش: آسودہ و
خوشحالی ہونا۔ صفت (خَفِيفٌ وَ أخَفِيفٌ وَ
خَفِيفٌ وَ أخَفِيفٌ)
خَفِيفُ الشئ: آسان کرنا۔ نرم کرنا اور اسی
سے ہے "خَفِيفٌ عَلَيْكَ" یعنی اپنے اوپر نرمی
کرنا۔

الخلل - سستی - فساد - رائے میں اشتکار و پراگندگی - شگاف - دراز سوج خجلال۔

الخلل - دانتوں کے درمیان خوراک کا بقیہ - واحد (خجلۃ) کہا جاتا ہے "هو خجلل القوم" وہ قوم کے درمیان ہے۔

الخللۃ - عادت - سوراخ - تھوڑا سرکہ، تھوڑی سی کھٹی شراب - حاجت - محتاجی - ج خجلال و خجلل - الخللۃ: بھلی پھٹکی عورت۔

الخللۃ - گھاس جس میں مٹھاس ہو - ج خجلل - دوستی - عادت - بیوی - محبوبہ - دوست (واحد تشبیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لئے) تم کہتے ہو "هو وهی وهن خلیتی"

الخللۃ - دوستی - بھائی بندی - تلوار کی میان جس پر چمڑا منڈھا ہوا ہو - چمڑا جو منقش ہو - ج خجلل و خجلال۔

الجلال - سوراخ کرنے کا آلہ - لکڑی جو اونٹ کے بچے کی زبان میں لگادی جاتی ہے تاکہ دودھ نہ پی سکے - ج اخللۃ (ج والجللۃ) دانت صاف کرنے کا تھکا۔

الجلال و الخللۃ - دانتوں کے درمیان خوراک کا بقیہ - و جلال الیدیار: شہروں کا ارد گرد - گھروں کے درمیان - کہا جاتا ہے ہو جلالہم: وہاں کے درمیان ہے۔

الخللۃ و الخللۃ و الخللۃ - سستی - ج خجلال و الخلیل - خالص دوست - ج اخللۃ و خلان - لاغر بدن - فقیر - مؤنث خلیلۃ - ج خلیلات و خلیل - خسی خلیل: چھدی ہوئی چیز۔

الخلل - سرکہ پیچنے والا - سرکہ بنانے والا - الأخل - محتاج - دوسرے سے زیادہ محتاج - رجل (مخل) محتاج مرد - خلا (ف) خلوة - ا - جگہ سے نہ لٹنا - خللات النافۃ: آڑ جانا۔

خاللا مخلالۃ - القوم: ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری میں مشغول ہو جانا۔

خلبۃ (ن ض) خلبنا - بظفرہ: خراش لگانا، زخمی کرنا - السنیع الفریسۃ: جنگل سے کھڑا - الفنی: جوان کے دل کو چھین لینا۔

خوایقن - کہا جاتا ہے (خفتۃ) القوم علی انفسہم: لوگوں نے اس کو اپنا بار شاہ بنالیا۔

خل (ن ض) خلأ و خلوا - لحمۃ: ڈبلا ہونا - کم گوشت ہونا (ن خلأ) الشئی: سوراخ کرنا۔

القصیل: زبان کو چیر کر دودھ سے روکنے کیلئے لکڑی ڈالنا - فی دُعایہ: خاص کرنا۔

خل - الیہ: محتاج و فقیر ہونا۔

خلل - العصیز: سرکہ بنا - سرکہ بنا - خلل - العصیز: سرکہ بنا - الأستان: خلال کرنا۔

خلل فی دُعایہ: خاص کرنا۔

خالۃ مخالۃ و خلالا و خللا - دوستی کرنا - بھائی بندی کرنا۔

اخل - محتاج ہونا - بالشئی: کوتاہی کرنا - چھوڑ دینا - الوالی بالثغور: لشکر کم کر دینا - بمنزکۃ: مرکز کو چھوڑ دینا -

بقومہ: عاقب ہو جانا - بالزجل: پورا حق نہ دینا - بالامر ہرے طریقے سے انجام دینا - بگاڑ دینا - اخلۃ اللہ: محتاج کر دینا - اخل بالرجل: محتاج ہونا۔

تخلل - القوم: قوم میں مل جانا - ہ بالزومع: پاپے نیزے مارنا - الشئی فیہ: نشوونہ کرنا - المنظر: مخصوص جگہ میں برسا - الزجل: خلال کرنا۔

اخل - الامر: کمزور و فاسد ہونا - عقلہ: خراب ہونا - الیہ: محتاج ہونا -

العصیز: سرکہ بنا - العصیز: سرکہ بنا - لحمۃ: لاغری کی وجہ سے کم ہونا - الزجل: اپنے لیے سرکہ بنانا۔

تخالوا اتخالاً - باہم دوستی کرنا۔

الخل - سرکہ - ریگستانی راستہ - ذبلے جسم والا - لاغر - موٹا - بوسیدہ کپڑا - کپڑے کی بچھن - ج اخل و خجلال - کہا جاتا ہے "قاله خل ولا ختم" اس کے پاس نہ چید ہے نہ روی "ولست من هذا الامر فی خل ولا ختم" مجھ کو اس معاملہ کے نہ خیر سے مطلب نہ شر سے کام - أم الخل: شراب۔

الخل و الخلل - دوست - مؤنث خل و خللۃ - ج اخلال۔

ہونا - صفت (خاف و خفی)

خفی و أخفی - الشئی: پوشیدہ کرنا - چھپانا - کہا جاتا ہے "أخف عتاً" ہمارے متعلق جو تم سے دریافت کرے اس سے ہماری حالت چھپاؤ۔

و أخفی الرجل: چھپانا - پوشیدہ ہونا - أخفی الشئی: سرپوش ہونا۔

تخفی و استخفی: چھپنا - پوشیدہ ہونا۔

أخفی الشئی: ظاہر کرنا - نکالنا - من فلان: چھپنا - البئر: کھودنا۔

الخفاء - مہ - پوشیدگی - کہا جاتا ہے "بوخ الخفاء" یعنی معاملہ واضح ہو گیا - پردہ - چادر - لباس کو چھپالے - پوشیدہ چیز - ج أخفیۃ - أخفیۃ الکوزی: آنکھیں - أخفیۃ الزھرة: کلی کے خلاف۔

الخفی: لوگوں سے علیحدہ - مخفی جگہ میں رہنے والا - کہا جاتا ہے "رجل خفی البطن" بچکے ہوئے پیٹ کا مرد۔

الخافی و الخافیاء - جن۔

الخافیۃ - الخافی کا مؤنث - پوشیدہ چیز پوشیدگی - جن - ج خواف - اور کہا جاتا ہے "أرض خافیۃ" جنوں کی سرزمین۔

الخوافی - پرندے کے بازوؤں کے نیچے چھپے ہوئے پر - اور امثال عرب سے ہے "لیس القوادیم کالخوانی" سچ پر چھوٹے پروں کی مانند نہیں۔

الخافیۃ - الخفی کا مؤنث - گھٹیاں - جھاڑی۔

کنواں جس میں پانی ہو - ج خفایا و خفیات کہا جاتا ہے - "بہ خفیۃ" اس پر کچھ جنوں دوپونگی کا اثر ہے۔

المخفی - فافکن چور۔

خفت (ن ض) خفا و خفا و خقیقا - القدر: جوش سے سنسانا - حق السبل فی الارض: گہرا گڑھا کر دینا (ج و أخفت)۔

البکوة: چرخی کے سوراخ کا چوڑا ہونا۔

الحق - ج أخفاق و شقوق و الأخفاق و الأخقیق زمین کا شگاف - تالاب جبکہ خشک ہو جائے۔

خاقان - ترکوں کے بادشاہ کا لقب - ج

خلج

خلج

خلس

۲۱۰

اور فتنہ میں جھٹا کرنا۔ خَلَبَهُ (ن) خَلَبًا وَخَلَابًا وَخَلَابَةً وَخَالِبَهُ مُخَالِبَةً وَخَلَبَهُ وَاخْتَلَبَهُ : نرم کلامی سے فریفتہ کرنا۔ صفت (مخالب و خلوت و خللاب و خللیوت) مؤنث خَالِبَةٌ وَخَلِبَةٌ وَخَلُوتٌ وَخَلَابَةٌ وَخَلُوتٌ۔ خَلِبَتْ (س) خَلَبًا۔ المرأة: بیوقوف ہونا۔ صفت خَلِبَاء۔ أَخْلَبَ۔ الماء: کچھ والا ہونا۔ صفت (مخلب) اسْتَخْلَبَهُ۔ بظفره: خراش لگانا۔ الخَلْبُ۔ جگر کے اوپر کی جھلی۔ انگوڑ کے پتے۔ ج أخلاب (___ و المخلب) چنگل۔ ج مخالب۔ المخلب: دار رتی۔ الخَلْبُ وَ الخَلْبُ۔ کچھ بھور کے درخت کا گودا۔ بھور کے درخت کی چھال اور اس کی ٹٹی ہوئی رتی۔ الخَلْبُ۔ بے بارش کا بادل۔ وَ التبرقُ الخَلْبُ وَ تبرقُ الخَلْبُ : بے بارش کے بادل کی بجلی۔ ”إِنَّمَا أَنْتَ كَثْرِقُ خَلْبٌ“ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو وعدہ کرے اور پورا نہ کے۔ الخَلْبِيُّ فَرِيب۔ المُخَلْبُ۔ من الثياب: بہت نقش و نگار والا کپڑا۔ الخَلْبُوتُ۔ فرجی۔ خَلْبَسَهُ او خَلْبَسَ قلبه: فریفتہ کرنا۔ الخَلَابِسُ۔ نرم بات۔ الخَلَابِسُ وَ الخَلَابِسُ وَ الخَلَابِسُ : باطل و جھوٹی باتیں۔ الخَلَابِسُ : کینے و فرومایہ لوگ۔ الخَلْبِيُّوس۔ چھتیاں۔ خَلْبَسَ۔ بھانگنا۔ الخَلْبُوسُ۔ چڑیا کا ہم رنگ اس سے چھوٹا ایک پرندہ۔ خَلَجَهُ (ن) خَلَجًا۔ کھینچنا۔ کھینچ کر نکالنا ہ یعنیہ آگھ سے اشارہ کرنا الشئ: حرکت دینا ___ ہ بالستیف: گھوار	سے مارنا ___ الولد: دودھ چھڑانا ___ ہ الامر: مشغول کرنا۔ کہا جاتا ہے ”خَلَجْتَهُ أَمْرًا الدنيا“ اس کو دنیا کے دھندوں نے پھنسا لیا۔ خَلَجَتْ (ن) خَلَجًا وَ خَلُوجًا وَ خَلَجَانًا۔ العين: پھڑکانا۔ خلج (س) خَلَجًا۔ چلنے یا تھکنے کی وجہ سے پڈیوں کا درد کرنا ___ الشئ: گلانا۔ خراب ہونا۔ خَالَجَ۔ قلبه امر: کسی معاملہ کا دل کو سوچ بچار میں ڈال دینا۔ أَخْلَجَ۔ حاجتہ: دیکھنا۔ تَخَلَجَ۔ لڑکھانا۔ بلنا، بھگنا ___ الشئ: کھینچنا۔ تَخَالَجْتَهُ۔ المهموم: کہا جاتا ہے ”تخالج فی صدری شیء“ یعنی میرے دل میں کچھ تلخیاں ہوں۔ أَخْتَلَجَ۔ جھڑکانا ___ العين: پوٹوں کا نمیر ارادی طور پر پھڑکانا ___ الشئ فی صدره: تلخیاں ہونا ___ الشئ: کھینچ کر نکالنا الولد: دودھ چھڑانا۔ أَخْتَلَجَ۔ من بينهم: مرنا۔ الخَالَجُ۔ کاٹنے والے بدن کے لوگ۔ مٹھوک نسب کے لوگ۔ الأخلاج۔ رتی۔ الخَلِيجُ۔ من البحر: کھاڑی۔ ندی۔ چھوٹی کشتی۔ رتی۔ ج خَلِيجَانٍ وَ خَلِيجٍ۔ خَلِيجًا النهر: دریا کے دونوں جانب۔ الخَلِيجُ۔ ایک قسم کی دھاری دار چادر۔ الخَلِيجُ۔ اونٹنی جس کا دودھ پیتے جدا کرنے کی وجہ سے کم ہو گیا ہو۔ تیز رو اونٹنی۔ پرانہ بادل۔ بست پانی والا بادل۔ الإخْلِيجُ۔ ایک قسم کی گھاس ___ من الخَيْلِ: تیز رفتار گھوڑا۔ خَلَجَلَ۔ العظم: گوشت چھڑا کر صاف کرنا ___ المرأة: پازیب پستانا۔ تَخَلَجَلَ۔ الشئ: کسی چیز کے اجزاء کا ٹکڑا ہونا ہونا۔ ج میں خالی ہونا ___ من مکانہ: جگہ	سے بلنا ___ المرأة: پازیب پستانا ___ الثوب: بوسیدہ ہونا۔ الخَلَجَالُ۔ ج خَلَاخِيلٍ وَ (الخَلَجَلِ وَ الخَلَجَلِ) ج خَلَاخِيلٍ۔ پازیب۔ ثوب (خَلَجَالٌ وَ خَلَجَلٌ) باریک کپڑا۔ المُخَلَجَلُ۔ پٹری پازیب پہننے کی جگہ۔ عسکر (مُخَلَجَلِ) بھری ہوئی فوج۔ خَلَدًا (ن) خَلُودًا۔ ہمیشہ رہنا۔ (___ خَلَدًا خَلُودًا) باوجود زیادتی عمر کے کمزوری و بڑھاپہ نہ آنا۔ صفت (خالد و مُخَلَدٌ وَ مُخَلِدٌ وَ مُخَلَدٌ) ___ الى المکان وَ بالمکان: اقامت کرنا ___ الى الارض: چھٹنا۔ خَلَدٌ وَ أَخْلَدُ۔ الى المکان وَ بالمکان: اقامت کرنا ___ ہ: ہمیشہ کیلئے رکھنا۔ أَخْلَدُ بِصَاحِبِهِ: ہمیشہ ساتھ رہنا۔ أَخْلَدَ إِلَيْهِ: مائل ہونا۔ بھگنا۔ أَخْلَدُ۔ بیٹگی۔ دوام۔ بقا۔ الخُلْدُ: چھوٹا پتھر۔ مُتَاجِدُ الخُلْدِ: کنگن۔ بالی۔ ج خَلْدَةٌ۔ الخَلْدُ۔ دل۔ ہمیشہ رہنے والا۔ الخَلْدَةُ۔ بالی۔ کنگن۔ الخَالِدُ۔ نا۔ اَبُو خَالِدٍ۔ کتا۔ الجَزَائِرُ الخَالِدَاتُ۔ جزائر کناری۔ الخَوَالِدُ۔ دیکھ دان کے پائے۔ پاڑ۔ پتھر۔ الخُلرُ۔ ایک قسم کی نباتات۔ بقول بعض لوبیا یا ماش۔ خَلَسَ (ض) خَلَسًا وَ خَلِيسِي۔ الشئ: فریب سے چھینا مار لینا۔ أَخْلَسَ۔ النسب: سب اور خنک ملا جلا ہونا ___ الراس: بالوں کا کھجڑی ہونا۔ صفت خَلَسَ وَ خَلِيسٍ وَ مُخْلِسٍ أَخْلَسَتْ الارض: کچھ ہریالی ہونا۔ خَالَسَهُ مُخَالَسَةً۔ جلدی کرنا۔ تَخَالَسَ۔ القوم الشئ: ایک دوسرے سے چھیننا۔ کہا جاتا ہے ”هُمَا يَتَخَالَسَانِ أَنْفُسَهُمَا“ وہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں۔ أَخْلَسَ۔ الشئ: فریب سے چھینا مار لینا ___ القارئ الخوكة: پڑنہ پڑھنا۔ اس کے
--	--	--

مقابلہ میں اشباع ہے جس کے معنی پر پڑھنے کے ہیں کہ جس سے بجائے حرکت کے حرف علت پیدا ہو جائے۔

الْخُلْسَةُ: جھپٹی ہوئی چیز۔ مناسب فرصت۔ اور اسی سے ہے "الْخُلْسَةُ سُرْعَةُ الْفُوتِ بِطِينَةِ الْعَوْدِ" فرصت جلد ختم ہو جانے والی اور دیر میں آنے والی ہے۔

الْخُلَيْسُ وَالْخُلَاسُ: چوکنا ہمار۔ الْخُلَيْسَةُ: درندے کے منہ سے چھڑایا ہوا جانور جو زخم کرنے سے پہلے مر جائے۔

الْخِلَاسِيُّ: وہ بچہ کہ جس کے ماں باپ میں سے ایک گورا ایک کالا ہو۔

خَلَصَ (ن) خُلُوْصًا وَخَلَاصًا: خالص ہونا _____ مِنَ الْهَلَاقِ: نجات پانا۔ محفوظ رہنا _____ الْمَاءِ مِنَ الْكَبْرِ: صاف ہونا _____ إِلَى الْمَكَانِ وَبِالْمَكَانِ: پہنچنا _____ مِنَ الْقَوْمِ: جدا ہونا۔

خَلَصَ (س) خَلَصًا: اللَّحْمُ: گوشت میں بڑی کچور رہا ہونا۔

خَلَصَهُ: من کذا: نجات دینا۔ خَلَصَ الشَّيْءُ صَافَ كَرًا: خالص کرنا۔ خلاصہ لینا۔ خَلَصَ الزُّجْلُ: مثل شی دینا۔

خَالَصَهُ مُخَالَصَةً فِي الْعَشْرَةِ أَوْ الْمَوْدَّةِ: خلوص برتنہ۔ خَالَصَهُ الْوَدُّ: خالص دوستی کرنا۔

تَخَالَصًا: باہم خالص دوستی کرنا۔ أَخْلَصَ الشَّيْءُ: خلاصہ لینا۔ چن لینا۔ _____ هِ اللّٰهُ: عیوب سے خالی کرنا _____

الطَّاعَةِ وَفِي الطَّاعَةِ: بے نام و نمود کے کرنا _____ لَهُ الْحَبُّ أَوْ الْقَوْلُ: کھوت سے خالی کرنا۔

تَخَلَّصَ مِنْهُ: نجات پانا۔ جدا ہونا _____ مِنْ كَذَا أَوْ كَذَا: منتقل ہونا۔

اسْتَخَلَصَهُ: چن لینا _____ الشَّيْءِ مِنْهُ: اپنے لیے حاصل کرنا۔

الْخِلَاصُ: سہ (_____ وَالْخِلَاصُ) کھوت سے خالی کیا ہوا۔ (سونا چاندی وغیرہ) الْخُلَاصَةُ وَالْخِلَاصَةُ: خالص گئی۔ پھر اس کا عام طریقہ سے استعمال ہر اس چیز ہونے لگا جو

دوسرے سے خالص کر لیا گیا ہو۔ اور اسی سے ہے "خُلَاصَةُ الْكَلَامِ"

الْإِخْلَاصُ وَالْإِخْلَاصَةُ: کھن جو چھٹ سے جدا کر لیا جائے۔ "كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ" لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ

الْخُلْصُ: ہر سفید چیز۔ الْخُلْصُ: حِ الْخُلْصَاءُ وَ (الْخُلْصَانُ) یاریا

خالص دوست۔ خُلْصَانُ مُفْرَدٌ وَجَمْعٌ وَتَوْنٌ كَلِمَةً لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ: کما جاتا ہے "هُوَ خُلْصَانِي وَهُمْ خُلْصَانِي"

الْخَالِصُ: نا۔ بے کھوت۔ صاف رنگ۔ کما جاتا ہے "هَذَا نَوْبٌ خَالِصٌ" یہ صاف رنگ کا کپڑا ہے۔ حِ الْخُلْصُ:

الْخَالِصَةُ: خالص کامونٹ۔ کما جاتا ہے "هُوَ خَالِصَتِي" وہ میرا دوست ہے و "هَذَا الشَّيْءُ خَالِصَةٌ لَكَ" یہ چیز تمہارے لیے مخصوص ہے۔

الْخُلُوصُ: زب جو کچور سے تیار کی جائے۔ تپجھٹ جو خالص گھی کی تیس پیٹھ جائے۔ بلائی الْمُخْلِصُ: فا۔ نجات دہندہ۔

خَلَطَ (ض) خَلَطًا وَخَلَطَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔ کما جاتا ہے "خَلَطَ الْمَرِيضُ" بیمار نے مضر چیزیں کھائیں۔ و "خَلَطَ فِي الْكَلَامِ" اُس نے

کجواں کی۔ خَلَطَ فِي الشَّيْءِ: خراب و فاسد کرنا۔ أَخْلَطَ الْفَرَسُ: دوڑنے میں کوتاہی کرنا۔

خَالَطَهُ مُخَالَطَةً وَخِلَاطًا: ملنا۔ میل ملاپ کرنا۔ ساتھ رہنا _____ الذَّاءُ فَلَانًا: بیماری لاحق ہونا۔

خَوَّلَطَ فِي عَقْلِهِ: مجبوظ الحواس ہونا۔ اِخْتَلَطَ: ملنا _____ الظَّلَامُ: تاریکی کا چھا جانا _____ الزُّجْلُ: خراب عقل والا ہونا۔

الْفَرَسُ: دوڑنے میں کوتاہی کرنا۔ تَخَالَطُوا: باہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھ جانا۔

الْخَلْطُ: سہ۔ لوگوں سے لٹنے والا اور چالوسی کرنے والا۔

الْجَلْطُ: ٹیڑھا تیز۔ ٹیڑھی کمان۔ بیوقوف۔ کما جاتا ہے "هُوَ خَلْطٌ بَيْنَ الْخِلَاطَةِ" وہ بیوقوف ہے جس کی بیوقوفی ظاہر ہے۔ ہر وہ چیز جو دوسری چیز

سے لے۔ حِ الْخِلَاطُ: حرامی۔ اور کما جاتا ہے "رَجُلٌ خَلِطٌ مُلَطٌ" مخلوط نسب کا مرد۔

الْأَخْلَاطُ: ملی جلی قسمیں۔ أَخْلَاطُ الْجَسَدِ فِي عَرْفِ الْأَقْدَمِينَ: خون۔ بلغم۔ سودا۔ صفرا۔ وَأَخْلَاطُ الْقَوْمِ: قوم کے معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ۔

الْخِلَاطُ: بیوقوف۔ الْخِلَاطَةُ: شرکت۔

الْخِلَاطُ: آدمیوں اور جانوروں کا ملا جلا ہونا۔ الْخِلَاطَةُ: عقل کی خرابی۔ بیوقوفی۔

الْخِلَاطُ: حِ الْخُلُطُ وَخُلْطًا: خلط نظر رکھنے والا۔ شریک۔ وہ لوگ جن کا معاملہ ایک ہو۔ شوہر۔ بیوی۔ ساتھی۔ بھوسہ ملی ہوئی مٹی۔ خَلِيطُ الزُّجْلِ: میل جول رکھنے والا۔ کما جاتا ہے "خَلِيطٌ مِنَ النَّاسِ" معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ۔

الْخِلِيطِيُّ وَالْخِلِيطِيُّ: معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ۔ کما جاتا ہے و "قَعُوْا فِي خُلِيطِي" وہ لوگ گڑبڑی میں پڑ گئے۔

الْمِخْلَاطُ وَالْمِخْلَاطُ: بست میل جول رکھنے والا۔ جَمَلٌ (مُخْتَلِطٌ) موٹا اونٹ کہ جس کی چربی گوشت کے ساتھ لگی ہو۔

خَلَعَ (ف) خَلَعًا: الشَّيْءُ: آتارنا _____ كَتَفَهُ أَوْ رُكْبَتَهُ: عضو کو جگہ سے ہٹا دینا _____ الْقَائِدُ: معزول کر دینا _____ الدَّابَّةُ: بندش سے آزاد کر دینا _____ الْعِدَارُ: اپنے مرتبہ کو گرا دینا (کنا یہ ہے بے حیائی سے) _____ عَلَيْنَهُ نَوْبًا: خلعت دینا۔ خَلَعَ الشَّجَرُ: پتے جھڑنا۔ نئے پتے لگانا۔

خَلَعَ (ف) خَلَعًا وَخُلْعًا: ابنہ: عاق کرنا۔ صفت مفعولی (خَلِيعٌ) زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے بیٹھاپا کے جرم میں ماخوذ نہیں ہوتا تھا۔

أَمْرًا تَهُ: مال کے عوض میں طلاق دینا صفت مفعولی (خَالِعٌ) اسم (الْخُلْعَةُ)

خُلِعَ: المِثْتُ: کفن جدا کیا جانا۔ خَلَعَ (ك) خَلَاعَةً: خواہشات نفسانی کا تابع ہونا۔ بے حیاء ہونا۔

صفت مفعولی (خَالِعٌ) اسم (الْخُلْعَةُ)

خُلِعَ: المِثْتُ: کفن جدا کیا جانا۔

خَلَعَ (ك) خَلَاعَةً: خواہشات نفسانی کا تابع ہونا۔ بے حیاء ہونا۔

خلف

خَالِعٌ مُخَالَفَةٌ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ الْمَرَأَةُ زَوْجَهَا. مال کے شرط پر جدائی اختیار کرنا۔

خَالِعُ الرَّجُلِ: جو اٹھ گیا۔

خَلَعَهُ: جدا جدا۔ خالص کرنا۔

أَخْلَعَ: السَّنْبِلُ: خوشہ میں دانے بیٹھنا۔ الشَّجَرُ: نئے پتے لگانا۔

تَخَلَّعَ: فِي الْمَشْيِ: چلنے میں پیروں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا۔ فِي الشَّرَابِ: مہمک ہونا۔ الْقَوْمُ: چپکے سے کھک کر چلنا۔

تَخَالَعَ: الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ: مال پر جدائی اختیار کرنا۔ الْقَوْمُ: باہم عمد توڑنا۔

إِنْخَلَعَ: ہٹ جانا۔ اُكْهَرُ جانا۔ زائل ہو جانا۔ اِنْخَلَعَ الشِّيْ: نکال لینا۔ کھینچ لینا۔

اِنْخَلَعُوا الرَّجُلَ: مال لے لینا۔ اِنْخَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا: مال دے کر جدائی اختیار کرنا۔ اِسْمُ الْخَلْعِ: الخَلْعَةُ: کپڑے جو عزت کے طور پر ملیں۔ اُنارہوا کپڑا۔ عمدہ مال۔

الخُلْعَةُ: عمدہ مال۔ کمزوری۔ کہا جاتا ہے ”فِيهِ خُلْعَةٌ“ اس میں کمزوری ہے۔

الْخُلَاعُ: ایک قسم کی دیوانگی جو انسان کو لاحق ہوتی ہے۔

الْخَلِيعُ: بے حیائی کا کام کر کے اپنے مرتبہ کو گرا دینے والا۔ معزول شدہ۔ غیبت۔ جوئے باز۔

رَجُ خُلَعَاءَ: بھیڑیا۔ بھوت۔ ثوبُ خَلِيعٍ بوسیدہ کپڑا۔

الْخَلِيعَةُ: بے حیائی۔ الخلیع کا مؤنث۔ من مانی عورت۔

الْخَوَّلُ: بیوقوف۔ ایک قسم کا کھانا جو آٹے سے تیار کیا جاتا ہے۔ سرکہ میں جوش دیا ہوا

گوشت۔ بھیڑیا (والْخَلِيعُ) خوف جو دل پر طاری ہو۔ الْخَلِيعُ: بے آستینوں کی قمیص۔

زَجَلَ خَلِيعٌ: کمزور مرد۔ الْمُخْلَعُ: سقم۔ من الرجال: کمزور

سُت۔ اُكْهَرُ ہوئے جوڑوں والا۔ وہ شخص جس کا سارا بدن یا کچھ بدن بے حس ہو۔

الْمُخْلَعُ وَالْمُخْلَعُ: بچو۔ خَلَعَهُ (ان) خَلَاْفَةً وَخَلِيفًا: جانشین ہونا

خلف

رَبُّهُ فِي قَوْمِهِ: جانشین بنانا۔ الرَّجُلُ: قائم مقام ہونا () خَلَفًا وَخَلِيفَةً: الْفَاكِهَةُ بَعْضُهَا بَعْضًا: ایک دوسرے کے قائم مقام ہونا۔

خَلَاْفَةٌ وَخَلِيفًا: الْعِلَامُ: بیوقوف ہونا۔ صِفَتُ (خَالِيفِ خَالِيفَةً) عَنْ خُلَيْقِ أَبِيهِ:

باپ کے عاوت و اخلاق سے بدل جانا () خُلُوْفًا وَخُلُوْفَةً: هِمُّ الضَّائِمِ: مُنْهَ كِي بُو كَا مُتَغَيِّرٍ

ہونا (خَلَفَ (ض) خَلَفًا) الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ: اپنے گھروالوں کے لیے پانی لانا۔ الْبَيْتُ: بچھلے

حصہ میں ستون لگانا۔ أَبَاهُ: باپ کے قائم مقام ہونا۔ کما جاتا ہے ”خَلَفَ الْمَلَأُ لَكَ وَ

عَلَيْكَ“ اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ دیں۔ الثوب: مرمت کرنا۔

عَنْ اصْحَابِهِ: پیچھے رہ جانا۔ فَلَانًا: پیچھے سے پکڑنا۔ جانشین ہونا۔ اور کما

جاتا ہے ”خَلَفَ لَهُ بِالْمَسِيْفِ“ اس کے پیچھے سے آکر اس نے اسے گوار ماری۔ ”خَلَفَ لَهُ بِخَيْبٍ

اَوْ شَيْءٍ“ اس کی غیر موجودگی میں اس نے اس کا پھل یا بڑا کر لیا۔

خَلِيفَ (س) خَلَفًا: بامیں ہمتا ہونا۔ بھیگا ہونا۔ بیوقوف ہونا۔ خَلِيفَةُ النَّاقَةِ: حاملہ ہونا۔ صِفَتُ (خَلِيفَةً)

خَلَفَ الشِّيْ: پیچھے چھوڑنا۔ مؤخر کرنا۔ ہ جانشین بنانا۔

خَالِيفَةُ خِلَافًا وَ مُخَالَفَةً: ناموافق کرنا۔ خَالَفَ عَنْ كَذَا: پیچھے رہنا۔ بَيْنَ رَجُلَيْنِ:

آگے پیچھے کرنا اور تم کہتے ہو ”خَالَفَنِی عَنْ كَذَا“ جبکہ وہ اعراض کر رہا ہو اور تم قصد کر رہے ہو۔ اور

”خَالَفَنِی اِلَى كَذَا“ جبکہ وہ قصد کر رہا ہو اور تم اعراض کرتے ہو۔

أَخْلَفَ: بُو كَا بَدَلًا یَا خُرَابٌ ہونا۔ الثوب: مرمت کرنا۔ لِأَهْلِهِ: اپنے لوگوں

کیلئے پانی کھینچنا۔ وَعَدَةٌ وَبِوَعْدِهِ: پورا نہ کرنا۔ ہ: وعدہ خلاف پانا۔ الْغَيْثُ:

امید کے بعد نہ برسا۔ الشجرۃ: کئی ہوئی شاخ کے بدلے دوسری شاخ لگانا۔

الطائر: پہلے پروں کے بعد دوسرے پر لگانا۔ الْعِلَامُ: قریب البلوغ ہونا۔

لِنَفْسِهِ: ایک چیز ضائع ہونے کے بعد دوسری کو

خلف

اس کے قائم مقام کرنا۔ ہ: پیچھے ڈالنا۔ الدَّوَاءُ فَلَانًا: کمزور کرنا۔ اللہ

علیہ: ضائع شدہ کا بدلہ دینا۔ تَخَلَّفَ: عنہم: پیچھے رہنا۔ القوم:

پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔ تَخَالَفُوا وَ اِنْخَلَفُوا: اختلاف کرنا۔ ناموافق

ہونا۔ اِنْخَلَفَهُ: جانشین ہونا۔ پیچھے کرنا۔ پیچھے سے پکڑنا۔ اِنْخَلَفَ اِلَى الْمَكَانِ: بار بار جانا۔

اِسْتَخَلَفَهُ: اپنا جانشین بنانا۔ فَلَانًا مِنْ

فَلَانٍ: قائم مقام کرنا۔ اِسْتَخَلَفَتِ الْاَرْضُ:

گرمی کی گھاس کو اگانا۔ اِسْتَخَلَفَ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ: اپنے لوگوں کیلئے پانی یا پھل پانی لانا۔ پانی

پلانا۔ الخَلْفُ: ہ۔ ایک گروہ جو ایک گروہ کے بعد

ہو اور اسی سے ہے ”هُؤَلَاءِ خَلْفُ سُؤْدٍ“ ان لوگوں کے حق میں بولا جاتا ہے جو اپنے سے زیادہ

کے ساتھ لاحق ہوں۔ ردی قول اور امثال عرب میں ہے ”سَكَّتِ الْقَاوُ نَطَقَ خَلْفًا“ وہ ہزاروں

باتوں سے خاموش رہا اور بولا تو ردی بات۔ کلبازی کی دھلا، بڑا کلباڑا۔ بے نفع شخص۔ پہلو

کی سب سے چھوٹی پہلی۔ ج۔ خلو ف اور خلف۔ قدام کی تفسیر ہے۔ بمعنی پیچھے و بعد ازاں۔

الخَلْفُ: وعدہ پورا نہ کرنا۔ خلاف مفروض خلیف کی جمع قِيَاسُ الْخَلْفِ: منطقیوں کی

اصطلاح میں ایک تفسیر کے امتناع سے دوسرے کے ثبوت پر استدلال کرنا۔

الخَلْفُ: مختلف۔ اونٹنی کے تھن کا سرا۔ موسم بہار کی گھاس۔ ج۔ اَخْلَافٌ وَخَلِيفَةٌ

الْخَلْفَانُ: دو مختلف صفات والے۔ کہا جاتا ہے ”لَهُ وَلَدَانِ خَلْفَانُ“ اس کے دو بیٹے ہیں جن

میں سے ایک زیرک اور دوسرا بیوقوف یا ایک لمبا اور دوسرا پست قد ہے۔ اور کہا جاتا ہے

”وَلَدَتِ النَّاقَةُ خَلْفَيْنِ“ اونٹنی نے ایک سال ز اور دوسرے سال ماڈہ بیٹے دیئے۔ ذَاتُ الْخَلْفَيْنِ: کلباڑا جس کے دو سرے ہوں۔ ج۔ ذوات الخلفین۔

الخَلْفُ: ولدی ولد صالح۔ بدلہ۔ کہا جاتا ہے ”فِي هؤَلَاءِ الْقَوْمِ خَلْفٌ مِمَّنْ مَضَى“ یعنی

سے نار ہو۔

تَخَلَّقَ: خلوق سے خوشبودار ہونا۔

بَغِيْرُ خُلُقِيْهِ: بناوٹ سے اخلاق ظاہر کرنا۔

اور اسی سے ہے "لَيْسَ التَّخَلُّقُ بِالْأَخْلَاقِ"

کمالِ خُلُقِيْ "بناوٹی اخلاقِ طبعی عادات جیسے نہیں۔"

(وَإِخْتَلَقَ الكَذِبَ: جھوٹ گھڑنا۔

افتراء کرنا۔

إِخْلُوْقٌ: الثوب: بوسیدہ ہونا _____

الرِسْمُ: زمین کے برابر ہو جانا _____ متن

الْفَرَسُ: چکنی ہونا _____ الدَّارُ: دیران ہونا۔

اور عسی کے معنی میں اُمید کے لیے بھی

مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے إِخْلُوْقٌ لَقَّتِ السَّمَاءُ

أَنْ تَنْطَلِقَ "اُمید ہے کہ بارش ہو۔"

الخَلْقُ: سہ۔ فطرت۔ لوگ۔ ہر چکنی چیز۔

الخَلْقَةُ: فطرت۔ ہیئت۔ ج۔ خلق۔

الخُلُقُ والخُلُقُ: طبعی خصلت۔ طبیعت۔

مَرْتَبَةٌ: عادت۔ ج۔ أَخْلَاقٌ: علم الاخلاق۔

حکمت عملیہ کی ایک قسم جس کا نام حکمتِ تخلیہ

ہے۔

الخَلْقُ: سہ۔ بوسیدہ (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے

"ثَوْبٌ خَلِقٌ وَجِيْبَةٌ خَلِقٌ" ج۔ أَخْلَاقٌ وَ

خُلُقَانٌ اور کہا جاتا ہے "ثَوْبٌ أَخْلَاقٌ وَجِيْبَاتٌ

أَخْلَاقٌ"

الخَلِقُ: بادل جس میں بارش کا اثر ہو۔

الخَلَاقُ: بھلائی کا دافرِ حَسَنٌ۔

الخَلَاقُ: چکنا۔

الخِلَاقُ والخُلُوْقُ: ایک قسم کی خوشبودار

کاجزاعِ عظیم زعفران ہے۔

الخَلِيْقُ: لائق مناسب۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

خَلِيْقِيْ بِهِ" وہ اس کے لائق ہے۔ کامل و معتدل

اخلاق والا۔ ج۔ خُلُقٌ وَخُلُقَاءٌ۔

الخَلِيْقَةُ: طبیعت۔ خلوق۔ کنواں جو کھودا جا رہا

ہو۔ ج۔ خَلَايِقُ

الأخْلُقُ: زیادہ لائق۔ چکنا۔ فقیر۔ مؤنث

خُلُقَاءٌ۔

المُخْتَلِقُ: کامل و معتدل اخلاق والا۔

المُخْتَلِقُ: اخلاق کریمانہ رکھنے والا۔ کہا جاتا

ہے "هُوَ مُخْتَلِقٌ بِذَلِكَ" وہ اس

الخَلِيْفُ: دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ یا

پہاڑی راستہ۔ وعدہ سے پیچھے رہنے والا۔ وعدہ

خلاف کرنے والا۔ ج۔ خُلْفٌ وَخَلْفٌ وَخَلْفٌ۔

الخَلِيْفُ: وہ عورت جو بالوں کو پیچھے لٹکالے۔

الخَلِيْفَةُ: جانشین۔ قائم مقام۔ بڑا بادشاہ کہ اس

سے اوپر کوئی بادشاہ نہ ہو۔ یہ مذکر ہے۔ کہا جاتا ہے

"هَذَا خَلِيْفَةُ أَحْمَرَ" اور کبھی لفظ کی رعایت سے

مؤنث استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں "خَلِيْفَةُ"

أَحْمَرَ" ج۔ خُلَفَاءٌ وَخَلَائِفٌ۔ پہلے کے لحاظ سے

عدد ذکر لاتے ہیں اور کہتے ہیں "ثَلَاثَةُ خُلَفَاءَ" اور

دوسرے کے لحاظ سے مذکر و مؤنث دونوں لانا جائز

ہے۔ تم کو گے "ثَلَاثَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ خَلَائِفٌ"

الأخْلَفُ: بامیں ہمتا۔ بھیگا۔ کم عقل۔ سیلاب۔ نر۔

سانپ۔

المُخْلَافُ: بہت وعدہ خلاف۔ ج۔ مَخَالِيْفٌ۔

المُخْلَافُ: پروا اور اس سے مَخَالِيْفُ البِئْمَنُ

ہے۔

المُخْلَفَةُ: بیدار گئے کی جگہ۔ راستہ۔ مرحلہ۔

منزل۔

خَلَقَةٌ (ن) خَلَقًا وَخَلَقَةً: پیدا کرنا۔ عدم سے

وجود میں لانا _____ الكَذِبُ: جھوٹ گھڑنا

_____ الأَدِيْمُ: کائنات سے پہلے اندازہ کرنا

_____ الشَّيْءُ: ہموار کرنا۔ چکنا کرنا۔ ملائم کرنا۔

خَلِقِيْ (س) خَلَقًا وَخَلِقِيْ (ك) خُلُوْقًا

وَخُلُوْقًا وَخُلُقًا: چمنا و نرم ہونا۔

خَلِقِيْ (ن) وَخَلِقِيْ (س) وَخَلِقِيْ (ك) خُلُوْقَةً

وَخَلَقًا: الثوب: بوسیدہ ہونا۔

خَلِقِيْ الشَّيْءُ لَهُ: لائق ہونا۔ سزاوار ہونا۔ خَلِقِيْ

الْفُلَامُ: اچھے اخلاق والا ہونا۔

خَلَقَةُ خَلِقٌ (ایک قسم کی خوشبودار) لگانا _____

العَوْدُ: ہموار کرنا _____ القِدْحُ: نرم کرنا۔

مَخَالِقُهُمْ مُخَالِقَةٌ: خوش خوئی کے ساتھ

معاشرت کرنا۔

أَخْلَقَ: الثوب: بوسیدہ ہونا _____

الشَّبَابُ: جوانی کا ختم ہونا _____ الثَّوْبُ:

بوسیدہ کرنا _____ ہ الثوب: بوسیدہ پورا ہونا۔ کہا

جاتا ہے "أَخْلَقْتُ لَهُ دِيْبِيَا جِيْنِيْ" میں نے اس کو

اپنے ایسے راز پر مطلع کر دیا جس کے ظاہر ہونے

اس قوم میں گزشتہ لوگوں کے جانشین ہیں۔ وہ چیز

جو کسی کے بعد حاصل ہو۔ کہا جاتا ہے "أَعْطَاكَ

اللَّهُ خَلْقًا مِّنْ تَلْفٍ" اللہ تعالیٰ تم کو تلف شدہ

چیز کا بدلہ دیں۔ نسل۔ اولاد۔ کہا جاتا ہے "هُنَّ

كِيَوْمَ خَلَقْنَا عَنْ سَلْفٍ" یعنی وہ لوگ اپنے باپ

وادا سے کریم ہیں۔ و "هُوَ خَلْفٌ صَدَقَ عَنْ

أَبِيهِ" یعنی وہ اپنے باپ کا عادات و اخلاق میں سچا

جانشین ہے۔

الخَالِفُ: فا۔ یوقوف۔ وہ شخص جو تمہارے

جانے کے بعد بیٹھا رہے۔ نَبِيْدٌ خَالِفٌ: بگڑی

ہوئی شراب۔ الخَالِفُ: گوشت جس میں کچھ بو

پیدا ہوگی ہو اور کھانے کے قابل ہو۔

الخَالِفَةُ: الخالِفہ کا مؤنث۔ گزری ہوئی

جماعت کے بعد باقی ماندہ جماعت۔ مکان کے پچھلے

حصہ کا ستون۔ زَجَلٌ خَالِفَةٌ: یوقوف۔ بھگڑا۔

بہت اختلاف کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْرِيْ

أَيُّ خَالِفَةٍ هُوَ أَيُّ الخَالِفِ هُوَ" میں نہیں

جاتا وہ کون شخص ہے۔

الخَوَالِفُ: عورتیں۔ وہ زمینیں جن کی

پیداوار بعد میں آگے۔

الإخْلَافُ: ناموافقیت۔۔ بید کی ایک قسم۔

آستین۔ المَسَائِلُ الإخْلَافِيَّةُ: مختلف فہم

مسائل۔

الإخْلَافَةُ: امارت۔ قائم مقامی۔ امارت۔

الخَلْفَةُ: مرض کی وجہ سے بھوک کا زائل

ہونا۔ ج۔ خُلْفٌ

الإخْلَفَةُ: آنا جانا۔ مخالفہ۔ مختلف۔

کپڑے کا پیوند۔ گھاس جو گرمی کے

زمانہ میں آگے۔ وہ چیز جو سوار کے

پچھے لٹکانی جائے۔ باقی ماندہ چیز۔

کہا جاتا ہے "هُنَّ يَمَشِيْنَ خَلْفَةً" وہ سب

آگے پیچھے آ جا رہی ہیں و "جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

خَلْفَةً" اس نے دن رات کو ایک دوسرے کے

پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ و "قَوْمٌ خَلْفَةٌ" یعنی

اشخاص کرنے والے لوگ۔ و "فِي البَيْتِ خَلْفَةٌ

مِنَ الْمَاءِ" کنوئیں میں بقیہ پانی ہے۔

الإخْلَفَةُ: مخالفت۔ یوقوفی۔ عیب۔ کھانے کا

آخری مزہ۔

کے لائق ہے۔

الْخَلْفَيْنِ - بڑا ایک - جِ خَلَاقَيْنِ -

خَلْمَةً تَخْلِيئًا وَ اِخْتِلَامَةً - اختیار کرنا۔ پسند کرنا۔

خَالَمَةٌ مُخَالَمَةٌ - دوستی کرنا۔ صفت (مُخَالِمٌ)

الْجَلْمِ - دوست۔ ساتھی۔ ہرن کے چھینے کی

جگہ۔ ہڈی۔ بکری کی آنت کی چربی۔ جِ اَخْلَامِ وَ خُلْمَاءِ -

الْمُخَالِمِ - ہوار۔

اہلِ اِخْلَامَةٍ - چرنے والے اُونٹ۔

خَلَا (ن) خَلَوُوا وَ خَلَاةٌ - اَلانَاءُ - خالی ہونا

_____ الْمَكَانَ : رہنے والوں سے خالی ہونا

_____ الرَّجُلَ : مکان میں اکیلا ہونا۔

عَلَى الشَّيْءِ : اقتصار کرنا۔ پس کرنا _____ عَلَى

فُلَانٍ : اعتماد کرنا۔ یہ: فریب کرنا _____

الشَّيْءِ : گزرتا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْتَهُ لِحُفْصِ

خَلْوُونَ مِنْ الشَّهْرِ" میں نے اس کو پانچویں

تاریخ کو کیا _____ عَنِ الْأَمْرِ وَ مِنْهُ : بیزار ہونا۔

عَنِ الشَّيْءِ : بھیجنا _____ بِالشَّيْءِ : منفرد ہونا۔

خَلَا (ن) خَلْوَةٌ وَ خَلْوًا وَ خَلَاةٌ : بہ و مَعَهُ

وَ إِلَيْهِ : تمنا میں ملنا۔ کہا جاتا ہے "خَلَا الرَّجُلُ

بِنَفْسِهِ" منفرد ہونا _____ لِلأَمْرِ : کسی کام کے

_____ بَالَهُ : مطمئن ہونا _____ الْحُزْنَ : غم

سے جدا ہونا۔ صفت (خَالٍ) جِ خَلْوًا اور کہا جاتا

ہے "أَفْعَلْ كَذَا وَ خَلَاكَ ذَمٌّ" یعنی تمہیں اس

کام کے کرنے پر مذمت نہیں۔

خَلَى تَخْلِيَةً - الامز و عَنَهُ : چھوڑنا _____

مَكَانَهُ : مرنا _____ سَبِيْلَهُ : چھوڑنا / آزاد کرنا

_____ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَ الْمَبِيْعِ : سپرد کرنا

_____ بَيْنَهُمَا : دونوں کو اکٹھا ہونے کی حالت

میں چھوڑنا۔

خَالَاةٌ مُخَالَاةٌ - چھوڑنا۔

أَخْلَى إِخْلَاةً - الْمَكَانَ : خالی کرنا یا پانا

_____ الْمَكَانَ : خالی ہونا _____ وَ بِهِ وَ مَعَهُ :

تمنا میں ملنا _____ فَلَانًا مَعَهُ : کسی کو کسی کے

ساتھ تمنا میں ملنے دینا _____ عَنَهُ : چھوڑنا۔

تَخَلَّى - تمنا میں رہنا _____ مِنْهُ وَ عَنَهُ :

چھوڑنا _____ نَهُ : کسی کام کے لیے فارغ ہونا

_____ خَلِيَّةً : اپنے لیے شد کا چھت تیار کرنا۔

إِخْتَلَى : تمنا میں رہنا۔

إِسْتَخْلَى : ہ : تمنا میں ملاقات چاہنا _____

بِالْمَلِكِ : تمنا میں ملنا _____ الْمَكَانَ : خالی

ہونا۔

الْخَلَاءُ - ہ - خالی مکان۔ پائخانہ۔ مکان

خَلَاءٌ : خالی جگہ جہاں کوئی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے

"بَاتَ فِي الْبَلَدِ الْخَلَاءُ" اس نے تمنا شہر میں

شب باقی کی۔ و "خَلَا وَ كَأَفَى لِحَيَاتِكَ" یعنی

تمہارا مکان میں تمہا ہونا تمہاری حیا کا نگہبان ہے

"وَ أَنَا مِنْهُ خَلَاءٌ" میں اس سے بڑی ہوں۔ مفرد

تشبیہ مع ذکر مومنٹ سب کیلئے مستعمل ہے۔

الْخَلْوُ - خالی (نذ کرو مومنٹ) جِ اَخْلَاءُ اور کبھی

مومنٹ کے لیے خلوة استعمال کرتے ہیں۔

خَلَا وَ مَا خَلَا - اَلْأَ : معنی میں کلمہ اشتیاء

ہے۔ اگر فعلیت کا اعتبار ہو تو مستثنیٰ منسوب ہوگا

جیسے "جَاءَ أَتْبَاعُ الْأَمِيرِ خَلَا او مَا خَلَا زَيْدًا"

اور حرف جر ہونے کی صورت میں مجرور ہوگا جیسے

"خَلَا زَيْدٌ" اور خلا سے پہلے اگر ماصد ریہ ہو تو

اس کا صل ہوتا ہے۔

الْخَلْوَةُ - تمنا کی جگہ۔ جِ خَلْوَاتٍ -

الْخَلِيَّةُ شد کی کھیں کا چھت۔ بڑی کشتی۔ شہر کی

جھاڑی۔ جِ خَلَايَا -

الْخَلِيَّةُ - فارغ۔ غم سے خالی۔ وہ شخص جس کی

بیوی نہ ہو۔ اور کہا جاتا ہے "أَنَا خَلِيٌّ مِنْهُ" میں

اس سے بری ہوں۔ جِ اَخْلِيَاءُ وَ خَلِيُونِ -

الْخَلِيَّةُ : شد کی کھیں کا چھت۔

الْخَالِي - فا۔ کنوارا۔ کنواری۔ جِ اَخْلَاءُ -

خَلَى (ض) خَلِيًا - النبات : کاٹنا۔

الْمَاشِيَةِ : جانوروں کیلئے گھاس کاٹنا۔

_____ الْفَرَسِ : منہ میں لگام دینا _____ الْإِلْحَامِ

مِنْ الْفَرَسِ : آتارنا _____ الشَّعِيرِ فِي

الْمُخْلَاةِ : توہر میں جو ڈانا _____ الْقَدْرَ :

ہانڈی کے نیچے ایڈھن لگانا _____ ہانڈی میں

گوشت ڈالنا۔

خَالَى مُخَالَاةً - ہ : بچھاڑنا۔ فریب کرنا۔

أَخْلَى - الْمَكَانَ : زیادہ گھاس والی جگہ ہونا

_____ الدَّابَّةَ : گھاس کا چارہ دینا۔

إِخْتَلَى - الْعُشْبَ : کاٹنا۔

إِنْخَلَى - الْخَلَى : کاٹنا۔

إِخْلَوَى إِخْلِيَاءَ الرَّجُلِ : دودھ پینے پر

مدد مت کرنا۔

الْخَلَى - تَرْغَاسَ - جِ اَخْلَاءُ واحد (خَلَاةٌ)

الْمِخْلَى : گھاس کاٹنے کا اوزار۔ کھریا۔

الْمِخْلَاةُ - تَوْبَرٌ - جِ مِخَالٍ -

الْمِخْتَلَى - شِيز -

خَمَّ (ن ض) خَمًّا - الْبَيْتَ : جھاڑو دینا

_____ الْبَيْتَ : کنواں صاف کرنا _____ النَّاقَةَ :

دوہنا _____ فَلَانًا : تعریف کرنا۔ اور کہا جاتا ہے

"هُوَ يَخِمُّ بِنَاتِ فُلَانٍ" یعنی وہ فلاں کی تعریف

کرتا ہے (خَمًّا وَ خُمُوْمًا وَ أَحَمًّا) اللَّحْمَ :

بدبودار ہونا۔ صفت (خَامًّا وَ خَمًّا وَ مِخَمًّا) _____

الْبَيْتِ : بچھاڑنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَخِمُّ" فلاں

اپنے افعال کرمانہ سے جدا نہیں ہوتا۔

خَمَّ - الدجاج : دوڑید میں بند کیا جانا۔

تَخَمَّتْ - مَا عَلَى الْخَوَانِ : دسترخوان کا باقی

مانہ کھانا کھانا۔

إِخْتَمَّ الْبَيْتَ : جھاڑو دینا _____ الشَّيْءِ :

کاٹنا۔

الْخُمَامَةُ - کوڑا کرکٹ۔ کنوئیں کی صفائی میں

جو نکلے۔ کھانے کا چور راجو بکھر جانے۔

الْخُمُّ ذُرْبَةٌ - جِ خُمَمَةٌ -

الْخِمُّ خَالٍ بَارِعٌ -

الْخِمَامَةُ - مثلثہ الخاء : ادنیٰ درجہ کے

لوگ۔ گھٹیا سامان۔ ناکارہ درخت۔

الْمِخْمَةُ - جھاڑو۔

الْخَمِيمِ - تازہ دودھ۔ تعریف کیا ہوا۔ مُت

قلب (مضموم) حسد و کینہ سے پاک صاف

دل۔

الْخَمِيْمَتِ - مونا۔

خَمِيْح (س) خَمِيْحًا - بیماری یا تھکن کی وجہ

سے سنت ہونا _____ اللَّحْمِ : بدبودار ہونا

_____ دِيْنُهُ او خُلْفُهُ : فاسد ہونا۔ خراب ہونا

_____ فَلَانًا : بڑائی سے ذکر کرنا۔

خُمَصٌ وَمَخْمَصٌ - پانچ پانچ (یہ خُمَصٌ سے معادل ہے) کہا جاتا ہے "جَاءَ وَخُمَصَ وَ مَخْمَصٌ" وہ پانچ پانچ آئے۔ یہ مذکر مؤنث دونوں کیلئے مستعمل ہیں اور غیر منصرف ہیں۔
 الخُمَصِيُّ - پانچ حرفوں والا۔ کہا جاتا ہے "جَارِيَةٌ خُمَصِيَّةٌ" بیخ سالہ لڑکی۔
 الخُمَصَةُ - پانچ۔ مؤنث کے لیے خمص۔
 خُمَصُونٌ - پچاس۔
 الخَمِيصُ - وَيَوْمَ الخَمِيصِ : جمعرات۔ ج. أخمصة وأخمساء - الخَمِيصُ : الفجر۔ اس لیے کہ اس میں پانچ جماعتیں مینہ۔ میسرہ۔ قلب۔ سادہ۔ مقدمہ الخیش ہوتی ہیں۔ زُحْمٌ (خَمِيصٌ وَمَخْمُوسٌ پانچ لڑکا تیرہ۔
 الخُمَصُ - پانچ ارکان والا۔ بھاری بوجھ اٹھانے کیلئے لوہے کا ایک آلہ۔
 خَمَشٌ (ن ض) خَمَشًا وَ خُمُوشًا - الوجہ : خراش لگانا۔ تھمرانا۔
 خَمَشَةٌ - زیادہ خراش لگانا۔
 الخَمَشُ - خراش۔ ج. خُمُوشٌ۔
 الخَمِيشَةُ : چھوٹی ٹال۔ ج. خَوَامِشٌ۔
 الخَمِيشَةُ - خفيف زخم۔ ایسا زخم جس پر بدلہ مقرر نہ ہو۔ ج. خَمِيشَاتٌ - یا وہ زخم جو پوری ریت واجب ہونے سے کم درجہ کا ہو۔ جیسے ہاتھ کا باناک وغیرہ کاٹنا۔
 الخُمُوشُ - چھڑ۔
 خَمَصٌ (ن) خَمَصًا وَ خُمُوصًا وَ إِنْخَمَصَ - الجوع : ورم کا جانا رہنا۔
 خَمَصَةٌ خَمَصًا وَ خُمُوصًا وَمَخْمَصَةٌ الجوع : ڈبلے پیٹ والا کر دینا () ۔
 خَمِصٌ (س) خَمَصًا وَ خَمِصًا (ک) خَمِصًا وَ خُمُوصًا وَمَخْمَصَةٌ البطن : پیٹ کا خالی ہونا۔ ڈبلا ہونا۔
 تَخَامَصَ - الليل : صُبح کے قریب رات کی تاریکی کا کم ہونا۔ عَنَهُ : یکسو ہونا۔
 الخَمِصَةُ - بھوک۔
 خَمِطٌ (ن) خَمِطًا وَ خُمُوطًا وَ خَمِطٌ (س) خَمِطًا - الخُمُوزُ أو اللبْنُ : اچھی بو کا ہونا۔ بو میں تھیرا ہوا جانا۔ صفت (خَامِطٌ وَ خَمِطٌ) خَمِطٌ

جھاڑی۔ تم کہتے ہو "تَوَازَى الصَّيْدُ عَنِّي فِي خَمَرِ الوَادِي" شکار مجھ سے وادی کی گھٹی جھاڑی میں چھپ گیا۔
 الخَمِيرُ - وہ جگہ جہاں گھٹی جھاڑی زیادہ ہو۔
 رَجُلٌ خَمِيرٌ : وہ شخص جس کو نشہ کا شمار لاحق ہو۔
 الخَمَارُ - شراب کی وجہ سے در۔ س۔
 والخَمَارُ والخَمْفَرَةُ لوگوں کی کثرت و جھوم۔
 الخَمَارُ - اوڑھنی۔ روپیہ۔ پردہ۔ ج. أخميرة وخمفر وخمفر۔ کہا جاتا ہے "مَا شَمَّ خَمَارًا؟" یعنی کیا چیز تجھ کو لاحق ہوئی جس نے تجھ کو تیری حالت سے بدل دیا۔
 الخَمِيرُ وَ الخَمِيرَةُ - خمير الخَمِيرُ : خمیری روٹی۔
 الخَمْفَرَةُ - خمیر کرنے کا برتن۔ شراب کی تلچٹ۔ شراب کی تکلیف دوران سر۔ کھجور کی چھوٹی پٹائی۔ خَمْفَرَةُ اللَّبْنِ : وہ چیز جس کو دودھ میں ڈالنے سے جلدی جم جائے۔ ج. الخَمْفَرُ) وَالخَمْفَرَةُ وَ الخَمْفَرَةُ بوجو تمہیں پہنچے۔
 الخَمْرِيُّ - مِنَ الالوان : سیاہ رنگ جو سرخی مائل ہو۔
 الخَمَارُ - شراب فروش و (الخَمَارَةُ) شراب پہنچنے کی جگہ۔
 الخَمِيرُ وَ المُسْتَخْمِرُ - بہت شراب پینے والا۔
 المَخْمُورُ - شراب کی وجہ سے مست۔
 الخَمْفُورُ - سمدری گھونگا۔
 خَمَسٌ (ن ض) خَمَسًا القوم : پانچواں ہونا۔
 قوم کے مال کا پانچواں حصہ لینا۔
 المَالُ : پانچواں حصہ لینا۔ الخَمَلُ : پانچ لڑیوں سے بنتا۔
 خَمَسٌ - الشئ : پانچ رکن والا بنانا۔ اور اسی سے شعراء کے نزدیک تخمیس ہے جس کے معنی کسی شعر میں تین مصرعے بڑھا کر پانچ مصرعوں کا کر دینا ہے۔
 أخمس القوم : پانچ ہونا۔
 الخمس والخمسة : پانچواں حصہ۔ ج. أخماس۔ کہا جاتا ہے "صَوَّبَ أخماسًا لِأَسَدِاسٍ" یعنی اس نے مکرو قریب میں کوشش کی۔

خَمِصٌ - گنگنا۔
 الخَمِصُ - ایک سمدری چھوٹا جانور۔
 الخَمِصُ - ایک قسم کی کانٹے دار گھاس۔
 خَمَدَتُ (ن) وَ خَمِدَتُ (س) خَمَدًا وَ خُمُودًا - النَّازُ : آگ باقی رہنے ہوئے لپٹ کا ختم ہوجانا۔ الخَمِيصُ : بخار کی تیزی کا کم ہونا۔
 الخَمِيصُ : بیوشی طاری ہونا۔ مرنا۔
 أخمَدَ - الرَّجُلُ : بے حرکت ہونا۔ خاموش ہونا۔
 أَنفَاسُهُ : بارڈالنا یا ذلیل کرنا۔
 النَّازُ : لپٹ کو بھگانا۔
 الخَمُودُ - آگ بجھنے کے لیے دبانے کی جگہ۔
 خَمْرَهُ (ن ض) خَمْرًا - چھپانا۔
 الشَّهَادَةُ : پوشیدہ کرنا۔ الرجل : شراب پلانا۔ العَجِيصُ : خمیر ڈالنا۔ فَلَانًا : شرم کرنا۔
 خَمِرٌ (س) خَمْرًا - عَنَهُ : پوشیدہ ہونا۔ چھپانا۔
 عَنَهُ الخَمِيرُ : پوشیدہ رہنا۔
 الشئ : سابقہ حالات سے بدل جانا۔
 خَمَرٌ - العَجِيصُ : خمیر ڈالنا۔ وَجْهَهُ : ڈھانپ لینا۔ بَيْنَهُ : گھر میں جئے رہنا۔
 خَامَرٌ فَخَامَرَةٌ - بیخ میں دھوکا دینا۔
 القلب : داخل ہونا۔ الشئ : الآخر : باہم ملنا۔ هالداء : بیماری کا اندر تک اثر کرنا۔ بَيْنَهُ : گھر میں جئے رہنا۔
 یہ چھپنا۔
 أخمَرٌ - چھپانا۔ له : کینہ رکھنا۔
 الشئ : چھپانا۔ غافل کرنا۔
 العَجِيصُ : خمیر ڈالنا۔ الامر : پوشیدہ کرنا۔
 الأَرْضُ : زمین میں گھٹی جھاڑی بہت ہونا۔ ه الشئ : خندہ دینا۔
 تَخَمَّرَتُ وَ اخْتَمَّرَتُ - المرأة : اوڑھنی ڈالنا۔ وَ اخْتَمَّرَ العَجِيصُ : خمیر ہو جانا۔ اخْتَمَّرَ العَجِيصُ : شراب بن جانا۔
 الخَمْرُ وَ الخَمْرَةُ - انگوری شراب۔ ہر نشلی چیز۔
 الخَمْرُ - کتیبہ۔
 الخَمْرُ - لوگوں کی جماعت و بھیڑ۔ گھٹی

خَفْنَسٌ عَنهُ: پیچھے ہونا۔ سگڑنا۔
 الخَفْنَسُ: ہرنیوں کے رہنے کی جگہ۔ ہرنیاں۔
 خَفْنَسٌ: ستارے یا صرف سیارے۔ یا بقول
 بعض چند سیارے جن کے نام یہ ہیں۔ زحل،
 مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔
 الخَفْنَسَاءُ: نسل گائے۔ ایک مشہور شاعرہ کا
 لقب۔
 الأَخْنَسُ وَالخَفْنَسُ: شیر۔ الأَخْنَسُ:
 چھتری۔
 الخَفْنَسُ: شیطان۔
 الخَفْنَسُ: فرجی۔ جلد گر۔
 الخَفْنَسُ: لیم۔ کمینہ۔
 الخَفْنَسُ وَالخَفْنَسِيُّ: وہ شخص جو نقصان
 کے موقع میں ہوجن حسابیہ۔
 الخَفْنَسِيُّ: مصیبتیں۔
 الخَفْنَسُ: ایک قسم کی نباتات۔
 الخَفْنَسُ: کمونٹ الخَفْنَسُ: سور کا پتہ۔ ج۔
 خَفْنَسٌ (ن ض) خَفْنَسًا وَخَفْنَسًا وَخَفْنَسًا:
 عَنهُ: پیچھے ہونا۔ علیحدہ ہونا۔ سگڑنا۔ کہتے ہیں
 ”خَفْنَسُ الظَّرِيقِ عَنَّا“ یعنی ہم راستہ سے گزر
 گئے اور اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔
 بَيْنَ أَصْحَابِهِ: چھپانا۔
 خَفْنَسَةٌ (ن ض) خَفْنَسًا: پیچھے کرنا۔
 إِنْهَامَهُ: سیٹھا۔ کہا جاتا ہے ”أَشَارَ بِأَرْبَعٍ وَ
 خَفْنَسَ إِنْهَامَهُ“ اس نے چار انگلیوں سے اشارہ
 کیا اور گھوڑے کو سیٹھ لیا۔ القَوْلُ: بڑی
 بات کہنا۔ الشَّيْءُ عَنهُ: چھپانا۔
 فَلَانًا وَبِهِ: غائب کر دینا۔ چھپا دینا۔ صفت
 خَفَانِسُ ج خَفْنَسُ:
 خَفْنَسُ (س) خَفْنَسًا: ناک کا چھپنا ہونا اور اس
 کے سرے کا اٹھا ہونا۔ صفت (أَخْنَسُ)
 مَوْنَسٌ خَفْنَسًا ج خَفْنَسُ اسْم الخَفْنَسُ:
 أَخْنَسَهُ: عَنهُ: روکنا۔ پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”أَخْنَسْتُ عَنْهُ بَعْضَ حَقِّهِ“ میں نے اس کے
 کچھ حصہ کو روک لیا۔ أَوْ عَارَ الظَّرِيقِ:
 دشوار راستوں سے آگے بڑھ جانا۔
 خَفْنَسٌ بِهِ: غائب کر دینا۔

الخَفْنَسَةُ: کمینہ۔
 شَعْرٌ خَفْنَسٌ: لمبا۔
 الخَفْنَسَةُ: چھوٹا گڑھا۔ موٹھیوں کے درمیان کا
 گڑھا۔
 الخَفْنَسُ: بچو۔
 خَفْنَسٌ (ض) خَفْنَسًا: البَعِيْثُ: دوڑنے میں سر
 کو سوار کی طرف پھیرنا۔ صفت (مذکر مؤنث)
 (خَفْنَسٌ) ج خَفْنَسٌ: (خَفْنَسٌ) غُفْنَاكَ
 ہونا۔ الرَّجُلُ بِأَنْفِهِ: تکبر کرنا۔ صفت
 (خَفْنَسٌ)۔ المَرْأَةُ: سینہ پر دو تھڑا مارنا۔
 خَفْنَسٌ (س) خَفْنَسًا: صَدْرُهُ أَوْ ظَهْرُهُ: ایک
 جانب دوسری کے مخالف پیٹھ یا سینہ والا ہونا۔
 صفت (أَخْفَفَ) ج خَفْنَسٌ:
 الخَفْنَسُ: نشانات۔
 خَفْنَسٌ: عن القَوْمِ: نفرت کرنا۔ علیحدہ ہو
 جانا۔
 الخَفْنَسُ وَالخَفْنَسُ وَالخَفْنَسُ وَ
 الخَفْنَسَا وَالخَفْنَسَاءُ: گھریاں ج خَفْنَسُ:
 وَالخَفْنَسُ: شیر۔
 خَفْنَسَةٌ (ن) خَفْنَسًا وَخَفْنَسًا وَخَفْنَسًا: غنیمت
 گھونٹنا۔ کہا جاتا ہے ”خَفْنَسَةُ البَعِيْثِ“ یعنی اسے
 روٹے روٹے پھینک دیا گیا۔ خَفْنَسٌ: الاناء: بھرتا۔
 خَفْنَسٌ الشَّرَابِ الجَلِيلِ: پانی کی چوٹی کو قریب
 قریب چھپا لینا۔ خَفْنَسٌ زَيْدٌ الأَرْبَعِيْنَ: قریب
 قریب ہونا۔
 إِخْفَنَسٌ: گلا گھٹانا۔
 إِخْفَنَسٌ: اپنا گلا گھونٹنا۔
 الخَفْنَسُ وَالخَفْنَسُ: گلا گھونٹنا۔
 الخَفْنَسُ: ایک بیماری کا نام جس میں سانس لینا
 مشکل ہوتا ہے۔
 الخَفْنَسِيَّةُ: پرندوں اور گھوڑوں کے طوق کی
 بیماری کا نام۔
 الخَفْنَسُ: زسی وغیرہ جو گلا گھونٹنے کے کام میں
 آئے۔ گردن۔ کہا جاتا ہے ”أَخْفَذَهُ بِخَفْنَسِهِ“ اس
 نے اس کی گردن پکڑ لی۔
 الخَفْنَسِيُّ: فاجح راستہ۔ گلی۔ خَفْنَسِيُّ المَذْنَبِ
 وَخَفْنَسِيُّ التَّمْرِ وَخَفْنَسِيُّ الكَلْبِ: گھاسوں کے
 نام۔

إِنْخَفَسَ: عَنهُ: پیچھے ہونا۔ سگڑنا۔
 الخَفْنَسُ: ہرنیوں کے رہنے کی جگہ۔ ہرنیاں۔
 خَفْنَسٌ: نسل گائے۔
 الخَفْنَسُ: ستارے یا صرف سیارے۔ یا بقول
 بعض چند سیارے جن کے نام یہ ہیں۔ زحل،
 مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔
 الخَفْنَسَاءُ: نسل گائے۔ ایک مشہور شاعرہ کا
 لقب۔
 الأَخْنَسُ وَالخَفْنَسُ: شیر۔ الأَخْنَسُ:
 چھتری۔
 الخَفْنَسُ: شیطان۔
 الخَفْنَسُ: فرجی۔ جلد گر۔
 الخَفْنَسُ: لیم۔ کمینہ۔
 الخَفْنَسُ وَالخَفْنَسِيُّ: وہ شخص جو نقصان
 کے موقع میں ہوجن حسابیہ۔
 الخَفْنَسِيُّ: مصیبتیں۔
 الخَفْنَسُ: ایک قسم کی نباتات۔
 الخَفْنَسُ: کمونٹ الخَفْنَسُ: سور کا پتہ۔ ج۔
 خَفْنَسٌ (ن ض) خَفْنَسًا وَخَفْنَسًا وَخَفْنَسًا:
 عَنهُ: پیچھے ہونا۔ علیحدہ ہونا۔ سگڑنا۔ کہتے ہیں
 ”خَفْنَسُ الظَّرِيقِ عَنَّا“ یعنی ہم راستہ سے گزر
 گئے اور اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔
 بَيْنَ أَصْحَابِهِ: چھپانا۔
 خَفْنَسَةٌ (ن ض) خَفْنَسًا: پیچھے کرنا۔
 إِنْهَامَهُ: سیٹھا۔ کہا جاتا ہے ”أَشَارَ بِأَرْبَعٍ وَ
 خَفْنَسَ إِنْهَامَهُ“ اس نے چار انگلیوں سے اشارہ
 کیا اور گھوڑے کو سیٹھ لیا۔ القَوْلُ: بڑی
 بات کہنا۔ الشَّيْءُ عَنهُ: چھپانا۔
 فَلَانًا وَبِهِ: غائب کر دینا۔ چھپا دینا۔ صفت
 خَفَانِسُ ج خَفْنَسُ:
 خَفْنَسُ (س) خَفْنَسًا: ناک کا چھپنا ہونا اور اس
 کے سرے کا اٹھا ہونا۔ صفت (أَخْنَسُ)
 مَوْنَسٌ خَفْنَسًا ج خَفْنَسُ اسْم الخَفْنَسُ:
 أَخْنَسَهُ: عَنهُ: روکنا۔ پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”أَخْنَسْتُ عَنْهُ بَعْضَ حَقِّهِ“ میں نے اس کے
 کچھ حصہ کو روک لیا۔ أَوْ عَارَ الظَّرِيقِ:
 دشوار راستوں سے آگے بڑھ جانا۔
 خَفْنَسٌ بِهِ: غائب کر دینا۔

الْحَوَارِ: بزدل۔ کمزور۔ سُت۔ قورس خَوَارِ
العنان: تابعدار تیز رفتار گھوڑا۔ الْخَوَارِ مِنْ
الزَّيَادِ: بھٹماق۔
الْخَوْرِي: کاہن۔ ح خَوَارِة (دخیل)
الْخَوْرَس: گرجا میں خادموں کے قیام کی جگہ
(ہمد)
خَاوَرَه (ن) خَوْرَا: دشمنی کرنا۔
خَاسَت (ن) خَوْسَا: الجئیفة: بدبودار ہونا
_____ البصاعة: مندا ہونا _____ خَاس
العهدو بالعهد: بدعہدی کرنا _____
بالوعيد: خلاف وعدہ کرنا _____ بقلان:
بیوفائی کرنا۔
خَوَس: الشئ: کم کرنا۔ گھٹانا _____ الابل:
ایک ایک کر کے پالی پر بھیجنا۔
خَاشَة (ن) خَوْشَا: بالوضع: نیزہ مارنا
_____ الشئ: لینا _____ الرجل: نجوم میں
داخل ہونا۔
خَوْش وَخَوْش: الشئ: کم کرنا۔ گھٹانا۔ و
تَخَوْش الرجل: موٹائی کے بعد لاغر ہونا۔
الخوش: پہلو۔
الْخَوْشَان: ایک قسم کی گھاس جس میں ترشی
ہوتی ہے۔ واحد (خَوْشَانَة)
الْمَتْخَوْش وَ الْمَتْخَاوِش: جھری دار دبلے
پیٹ والا۔
خَوْصٌ يَخْوِصُ خَوْصًا: دھسی ہوئی آنکھ
والا ہونا۔ صفت (أَخْوَص) مؤنث خَوْصَاءُ ج
خَوْصٌ _____ الشاة: تمام جسم میں سفیدی کے
ساتھ ایک سفید اور ایک سیاہ آنکھ والی ہونا۔
خَوْصٌ: پہلے شرفا کا پھر کینوں کا اکرام کرنا
_____ الناج: سونے کے پتروں سے مزین کرنا
_____ الشئب: بڑھاپا شروع ہونا۔ کہا جاتا ہے
"خَوْصٌ مَا أَعْطَاكَ" یعنی جو کچھ وہ دے اس کو
لے لو اگرچہ تھوڑا ہو۔
خَاوِصٌ وَ تَخَاوِصٌ: آنکھوں کو بھیج کر تیز
دیکھنا _____ النجوم: مائل بغروب ہونا۔
خَاوِصَةٌ مُخَاوِصَةٌ وَ خَاوِصَةٌ الْبَيْعِ: بیچنے
میں متبادل کرنا۔
أَخْوَصُ النخل: پتے والا ہونا۔

المَخْوِخ: شتالو۔ واحد (خَوْخَة)
المَخْوِخَة: روشن دان۔ چھانک میں چھوٹا
دروازہ۔
المَخْوِخَاءُ وَ المَخْوِخَاءَةُ وَ المَخْوِخَاءَةُ:
بیوقوف۔
خَوْذَةُ الرَّجُلِ: تیز چلنا _____ مِنَ الطغَامِ
شَيْئًا: کچھ حاصل کرنا۔
تَخَوَّذَ الفُصْنُ: جھلکا۔
الخَوْدُ: نازک بدن۔ جوان عورت۔ ج
خَوَوَاتِ وَ خَوُوْدُ:
خَاوَذَةٌ مُخَاوَذَةٌ: الی الشئ: ایک کادو سرے
کے بعد آنا۔ کہا جاتا ہے "خَاوَذُونَا إِلَى الْمَاءِ"
یعنی ہم واپس آ رہے تھے اور وہ لوگ جا رہے تھے۔
خَاوَذَةٌ: بار بار زیارت کیلئے آنا۔ خَاوَذَهُ
الْحُمَى: غیر متعین وقت پر آنا۔ خَاوَذَ عَنَهُ:
علیحدہ ہونا۔
تَخَاوَزَ القَوْمُ: باہم حمد و بیان کرنا۔
تَخَوَّذَ: گھبائی کرنا۔ تم کہتے ہو "تخوذنا
بالزیارة" اس نے ہم سے بار بار ملاقات کی۔
الخَوْذَةُ: خور۔ ج خَوْذُ:
خَوْذَانُ النَّاسِ: لوگوں کے خادم۔
خَوَاذُ الحُمَى: غیر متعین وقت میں بخار آنا۔
خَاوَزَ (ن) خَاوَزَا: البقرة: آواز کرنا۔
(خَوْوَزَا وَ خَوَوَزَا) (س) خَوَوَزَا: ست و کمزور
ہونا۔ ثوئا _____ قوۃ المریض: کم ہونا۔
خَوَوَزَ کمزور ہونا۔ ڈھیلا ہونا _____ الْأَرْضُ:
کثرت بارش کی وجہ سے نرم ہو جانا _____
الرجل: کمزوری کی طرف نسبت کرنا۔
أَخَاوَزَهُ: مائل کرنا۔ موٹا۔ پھیرنا۔ تم کہتے ہو
"أَخَوَزْنَا الْإِبِلَ إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا" ہم نے اونٹوں
کو فلاں مقام کی طرف پھیر دیا۔
تَخَاوَزَتِ الْبُيُوتَانِ: بیٹوں کا باہم آواز نکالنا۔
إِسْتَخَاوَزَهُ: مریانی چاہنا _____ الْمُتَوَزِلُ:
صاف کرنا۔
الخَوَوَزُ: مہ۔ دو بلند یوں کے درمیان پست
زمین۔
الخَوَوَزُ: مہ۔ گائے کی آواز۔ بکریوں، بھڑوں اور
تیرکی آواز کے لیے بھی مستعمل ہے۔

الْحَنَّاقُ: جس کی عادت گلا گھونٹنے کی ہو۔
المُخَنَّقَةُ: گلوبند (ایک زیور) وہ چیز جس سے
گلا گھونٹا جائے۔ ج حَخَائِقُ وَ مَخَائِنِقُ۔
المُخَنَّقُ: مہ۔ گلا گھونٹنے میں رسی کی جگہ
گردن۔ کہا جاتا ہے "غَلَامٌ مُخَنَّقٌ الْخَصْرِ"
پتلی کمر کا لڑکا۔
المُخَنَّقُ: جگ جگہ۔
المُخَنَّقُ: گھوڑا جس کی پیشانی کی سفیدی
رخساروں تک ہو۔
خَنَاتُ (ن) خَنَوْتُ وَ خَنِي (س) خَنِي وَ أَخْنِي:
عَلَيْهِ فِي الْكَلَامِ: بدزبانی کرنا _____ أَخْنِي
الْجَوَادُ: بہت اترے رہنا _____ الْمَرْعَى:
بہت گھاس والی ہونا۔ أَخْنِي عَلَيْهِ الدَّهْرُ: طویل
ہونا۔ ہلاک کرنا۔ ظلم کرنا۔ بیوفائی کرنا اور کہا جاتا
ہے "أَخْنِي بِهِ" اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس
کے ساتھ بدعہدی کی۔
الْخَنِي: بدزبانی۔ خَنِي الدَّهْرُ: مصیبتیں واحد
(خَنَاتَة)
خَنَابُ (ن) خَنَوْنَا: محتاج ہونا۔
الْخَنَوِيَّةُ: بھوک۔ بغیر چارہ والی زمین یا وہ زمین
جس پر بارش نہ ہوئی ہو۔
خَنَاتُ (ن) خَوْنَا وَ خَوْنَاْنَا: الرجل: عمر
رسیدہ ہونا۔ عمد توڑنا۔ خلاف وعدگی کرنا _____
المان: کم کرنا (_____ وَ انْخَنَاتُ وَ انْخَنَاتُ)
الْبَايِزِيُّ عَلَى الصَّيْدِ: ٹوٹ پڑنا۔
خَنَاتُ (ن) خَوْنَاْنَا: العقاب: عقاب کے
بازوؤں میں سرسراہٹ ہونا۔
تَخَوَّتُ وَ انْخَنَاتُ: المان: کم کرنا _____
الشئ: آجک لینا _____ حَلِيثُ النِّجْمِ: سن
کریا اور کھٹا _____ الشاة: فریب دے کر چرانا۔
کہا جاتا ہے "هُمُ يَخَنَتُونَ اللَّيْلَ" وہ رات میں
رہتی کرتے ہیں۔
الْخَوَاتُ: دلیر مرد۔
خَوْتُ (س) خَوْنَاْنَا: البطن: ڈھیلا ہونا۔
کھانے سے بھرا ہوا ہونا۔ صفت (أَخَوْتُ)
مؤنث (خَوْنَاْنَا)
أَخَاخَ إِخَاخَةً: العشب: پوشیدہ ہونا۔ کم
ہونا۔

<p>أَخْوَلٌ وَأَخْوَلٌ مَسْمُونٌ وَالْأَخْوَلُ أَخَالٌ - فِيهِ خَالٌ مِنَ الْخَيْرِ وَأَخَالَةٌ: فِرَاسَةٌ سَعَى بَهْلَاكِي مَعْلُومٌ كَرْنَا -</p>	<p>الْخَوْعُ - وَادِي كَأَسْوَرُ - جِ أَخْوَاعٌ - خَافَ (س) خَوْقًا وَخَيْفًا وَمُخَافَةً وَخَيْفَةً وَتَخَوَّفَ - مَجْرَبًا - احْتِيَاظًا كَرْنَا - ذُرْنَا - كَمَا جَاءَ فِي "مُخَافَةٌ وَخَافَ مِنْهُ وَخَافَ عَلَيْهِ"</p>	<p>تَخَوَّضَ - الشَّيْءُ: تَهَوَّزَ هُوَ نَعْمَ كَمَا جَاءَ فِي لِيْنَا _____ الْعَطِيَّةُ: تَهَوَّرَا تَهَوَّرَا كَرْنَا لِيْنَا - الْخَوَّاصُ - مَجْرُورٌ كَيْتُونَ كَمَا يَجِيءُ وَالْأَخْوَالُ كَيْتُونَ كَرْنَا لِيْنَا -</p>
<p>تَخَوَّلَ فِيهِ خَالٌ مِنَ الْخَيْرِ وَتَخَوَّلَ تَخَوَّلًا وَتَخَوَّلًا - بَهْلَاكِي مَعْلُومٌ كَرْنَا - تَخَوَّلَ خَالًا مَسْمُونٌ بِنَا _____ فَلَا نَا: تَهَبَّأِي كَرْنَا -</p>	<p>صِفَتٌ (أَخَائِفٌ) جِ خَوْفٌ وَخَيْفٌ وَخَيْفٌ وَخَائِفُونَ - وَتَخَوَّفَ الْحَقُّ: حَقٌّ كَمَا جَاءَ فِيْنَا - وَتَخَوَّفَ الشَّيْءُ: تَهَوَّرَا تَهَوَّرَا كَرْنَا - تَخَوَّفَ عَلَيْهِ شَيْئًا: خَوْفٌ كَمَا جَاءَ فِيْنَا -</p>	<p>الْخَوْصُ - مَجْرُورٌ كَيْتُونَ وَاحِدٌ (مُخَوَّصَةٌ) الْمُخَوَّصَةُ - كَرْمٌ هُوَ جِ أَكْهَوْنَ كُوْجِدْهَا كَرْنَا وَعَلَى كَمَا جَاءَ فِي "تَخَوَّجُوا فِي الظَّهْرِ فِي الْمُخَوَّصَاتِ" وَهِيَ دَيْهْرِي كَرْنَا فِيْنَا لِيْنَا -</p>
<p>اسْتَخَوَّلَهُمْ - خَادِمٌ بِنَا - اسْتَخَوَّلَ وَاسْتَخَالَ فِيهِمْ مَسْمُونٌ بِنَا - الْخَوَّلُ - خَوْلِي كِي جَمْعٌ - غَلَامٌ - لَوْنِيَا - لَفْظٌ وَاحِدٌ فِي جَمْعٍ كَيْتُونَ مَسْتَعْمَلٌ هُوَ - اَدْرِكْهُ وَاحِدٌ كَيْتُونَ لِيْنَا (بِهَائِلِي) بُولْتِي هُوَ -</p>	<p>خَوْفَةٌ - ذُرْنَا _____ الطَّرِيقُ: اِيْسَا كَرْنَا كَرْنَا لَوْجٌ ذُرْنَا لِيْنَا - أَخَافُهُ إِخَافَةً - ذُرْنَا - أَخَافَ الطَّرِيقُ: مَجْرَبَةٌ فِيْنَا ذُرْنَا -</p>	<p>خَاضَ (ن) خَوْضًا وَخَيْضًا - الْمَاءُ: دَاخِلٌ هُوَ - كَهْنَا _____ الشَّرَابُ: مَلْنَا _____ الْعَمْرَاتُ: نَخِيوْنَ فِيْنَا كُوْجِدْهَا فِيْنَا الْحَدِيثُ: مَشْغُولٌ هُوَ _____ الْجَوَادُ فِيْنَا الْمَيْدَانِ: كَلْبِيْسٌ كَرْنَا بِالْفَرَسِ: بَانِي پَرَلِيْنَا جَانَا _____ بِالسِّيْفِ: زَعْمٌ فِيْنَا تَلَوَّرَا هَلْنَا: كَمَا جَاءَ فِيْنَا هُوَ "إِنَّهُ يَخْوِضُ الْمَنَازِي" وَهُوَ اِيْسَا كَرْنَا كُوْجِدْهَا بَلَاكِي فِيْنَا ذُرْنَا هُوَ - وَهُوَ يَخْوِضُ اللَّيْلَ وَهُوَ رَاكِبٌ كُوْجِدْهَا كِيوْنَ كِي پَرَا نَدْرَا كَرْنَا هُوَ كَرْنَا پَرَا نَدْرَا هُوَ -</p>
<p>الْخَالُ - مَسْمُونٌ جِ أَخْوَالٌ وَأَخْوَالَةٌ وَخَوْوَلٌ وَخَوَّلٌ وَخَوُّوَلَةٌ - الْخَالَةُ - مَالِكِي كِي بِنِي - مَسْمُونٌ جِ خَالَاتٌ - تَمَّ كَيْتُونَ هُوَ - "هُنَا اِيْسَا خَالَةٌ" يَهِي دُونُوْنَ اِيْسَا دَوْرَسِي كَيْتُونَ خَالَةٍ كَيْتُونَ هُوَ - الخَالُ: خَيْرٌ كَرْنَا نَشَانٌ - فَوْجٌ كَا جَمْعًا: جِزْرٌ كَا مَالِكٌ - تَمَّ كَيْتُونَ هُوَ "اِنَا خَالٌ هَذَا الْفَرَسِ" فِيْنَا اِيْسَا كُوْجِدْهَا كَا مَالِكٌ هُوَ -</p>	<p>خَوْفَةٌ - ذُرْنَا _____ الطَّرِيقُ: اِيْسَا كَرْنَا كَرْنَا لَوْجٌ ذُرْنَا لِيْنَا - أَخَافُهُ إِخَافَةً - ذُرْنَا - أَخَافَ الطَّرِيقُ: مَجْرَبَةٌ فِيْنَا ذُرْنَا - خَاوْفَةٌ - ذُرْنَا فِيْنَا مَقَابِلَةً كَرْنَا - كَمَا جَاءَ فِيْنَا "خَاوْفَةٌ فَخَفَفْتُهْ أَخْوَفُهُ" فِيْنَا اِيْسَا ذُرْنَا فِيْنَا مَقَابِلَةً كِيَا تُوْجِدْهَا غَالِبٌ رَهَابِيْنَا فِيْنَا اِيْسَا سِي زِيَادَةً ذُرْنَا وَالْاِتْكَالُ - الْخَوَافُ: شُورٌ - الْخَوَافُ: بَسْتٌ ذُرْنَا وَالَا -</p>	<p>خَوْضُ - الْمَاءُ: دَاخِلٌ هُوَ نَا كَهْنَا - خَاوِضٌ مُخَاوِضَةٌ وَأَخَاوِضٌ إِخَاوِضَةُ الْفَرَسِ: بَانِي فِيْنَا دَاخِلٌ كَرْنَا - أَخَاوِضُ الْمَاءِ: جَانُوْرُوْنَ كُوْجِدْهَا فِيْنَا ذُرْنَا تَخَوَّضَ - يَنْكَلِفُ كَهْنَا - إِخْتَاَضَ - الْمَاءُ: دَاخِلٌ هُوَ نَا كَهْنَا - تَخَاوَضَ - الْقَوْمُ فِيْنَا الْحَدِيثُ: بَانِي مَشْغُولٌ هُوَ نَا -</p>
<p>الْخَوْلِيُّ - مَالٌ كَا بَسْرٌ يَنْتَزِمُ جِ خَوْلِي - الْخَائِلِي - نَا - الخَوْلُ كَا وَاحِدٌ - كَمَا جَاءَ فِيْنَا هُوَ خَائِلِي مَالِي "وَهُوَ مَالٌ كَا يَنْتَزِمُ وَتَهَبَّأِي هُوَ اَدْرِكْهُ حَذْفٌ مَزْمُورٌ سَعَى خَائِلِي مَالِي" كَيْتُونَ هُوَ - الْخَوْلَةُ - بَهْرِي - الْأَخْوَلُ - وَهُوَ مَعْنَى جَمْعٍ كَيْتُونَ سَعَى مَسْمُونٌ هُوَ - رَجُلٌ (مُخَوَّلٌ وَمُخَوَّلَةٌ وَمُخَالٌ) شَرِيفٌ مَسْمُونٌ وَالَا -</p>	<p>الْمُخَافَةُ - جِزْرٌ كَا جَمْعٌ جَمْعٌ كُوْجِدْهَا لِيْنَا وَالَا يَسْتَأْذِنُ هُوَ - جَمْعٌ ذُرْنَا سَعَى بَهْلَاكِي كُوْجِدْهَا جَمْعٌ - الْمُخَيَّفَةُ - ذُرْنَا دَالِي كِي حَالَتٌ جِ خَيْفِي - الْمُخَوِّفُ - خَوْفَاكٌ - كَمَا جَاءَ فِيْنَا "طَرِيقِي مُخَوِّفٌ" خَوْفَاكٌ رَاكِبٌ - خَوْقٌ (س) خَوْقًا وَإِخَافًا وَتَخَوَّقٌ - كَشَادَةٌ هُوَ نَا - صِفَتٌ (أَخْوَقٌ) مَزْمُورٌ خَوْفًا جِ خَوْقٌ - أَخَاقٌ إِخَافَةٌ - مَلِكٌ فِيْنَا جَانَا - خَوْفَةٌ - كَشَادَةٌ كَرْنَا - تَخَوَّقٌ - عَنَتُهُ: دَوْرٌ هُوَ نَا - الْخَوْقُ: بَالِي كَا حَلَقَةٌ - الْخَوْقُ: كَشَادَةٌ - خَارِشٌ - الْأَخْوَقُ: خَارِشٌ وَالَا - كَانَا - مَكَانٌ (مُنْخَافٌ) كَشَادَةٌ جَمْعٌ -</p>	<p>الْمُخَاوِضَةُ - بَانِي فِيْنَا كَهْنَا كِي جَمْعٌ - جِ مُخَاوِضٌ وَمُخَاوِضَةٌ وَمُخَاوِضَاتٌ - تَخَوَّطَهُ وَتَخَوَّطَا آتَا - الْمُخَوِّطُ - زَمَّ شَيْءٌ يَاهِرِي شَاخٌ جِ خَيْطَانٌ - خَوْعٌ تَخَوَّنَقَا: مَنَهُ كَرْنَا - كَهْنَا _____ فَلَا نَا بِالْبَصْرِ: تَوَّرْنَا - كَرْمُورٌ كَرْنَا _____ السِّيْلُ الْوَادِي: وَادِي كَيْتُونَ پَلُوْرُوْجٌ كُوْجِدْهَا ذُرْنَا _____ ذَيْتُهُ: اَدْرَا كَرْنَا - تَخَوَّعَ - الشَّيْءُ: تَهَوَّرَا تَهَوَّرَا كَرْنَا - كَهْنَا كَرْنَا كَرْنَا -</p>
<p>خَامَةٌ (ن) خَوْمَانَا - الْأَرْضُ: نَامُوْرُقٌ اِيْسَا وَهُوَ اَدْرَا هُوَ نَا - أَخَامٌ إِخَامَةٌ - الْفَرَسُ: تَمِيْنٌ نَا كُوْجِدْهَا پَر كَهْنَا هُوَ نَا - الْخَامُ - رُوْدِي كَا كِيْرَا - جِ أَخْوَامٌ - اَرْضٌ (خَامَةٌ) نَامُوْرُقٌ اِيْسَا وَهُوَ اَدْرَا زَمِيْنَا - خَانَةٌ (ن) خَوْنًا وَخَيْبَانَةً وَمُخَانَةً وَخَانَةً - فِيْنَا كَهْنَا: اِيْمَانَتٌ فِيْنَا خِيَانَتٌ كَرْنَا - خَانَةٌ مُسَيِّفَةٌ: اِيْحُثٌ جَانَا - خَانَةُ الدُّهْرِ: اَسْوَدِي كُوْجِدْهَا سَعَى بَدَلِيْنَا رَبِيْنَا - خَانَتُهُ رَجُلًا: جَمْعٌ پَر كَادَرْنَا هُوَ نَا - خَانٌ الدَّلُوْ الرِّشَاءُ: ثَوْرَتٌ جَانَا - الْعَهْدُ: تَوَّرْنَا - كَمَا</p>	<p>خَوْلَةٌ - الشَّيْءُ: عَطَا كَرْنَا - بَشْشٌ كَرْنَا مَالِكٌ بِنَا - خَوْلَةٌ - الشَّيْءُ: عَطَا كَرْنَا - بَشْشٌ كَرْنَا مَالِكٌ بِنَا -</p>	<p>الْمُخَاوِضَةُ - بَانِي فِيْنَا كَهْنَا كِي جَمْعٌ - جِ مُخَاوِضٌ وَمُخَاوِضَةٌ وَمُخَاوِضَاتٌ - تَخَوَّطَهُ وَتَخَوَّطَا آتَا - الْمُخَوِّطُ - زَمَّ شَيْءٌ يَاهِرِي شَاخٌ جِ خَيْطَانٌ - خَوْعٌ تَخَوَّنَقَا: مَنَهُ كَرْنَا - كَهْنَا _____ فَلَا نَا بِالْبَصْرِ: تَوَّرْنَا - كَرْمُورٌ كَرْنَا _____ السِّيْلُ الْوَادِي: وَادِي كَيْتُونَ پَلُوْرُوْجٌ كُوْجِدْهَا ذُرْنَا _____ ذَيْتُهُ: اَدْرَا كَرْنَا - تَخَوَّعَ - الشَّيْءُ: تَهَوَّرَا تَهَوَّرَا كَرْنَا - كَهْنَا كَرْنَا كَرْنَا -</p>

نیکی والا۔ اور خیر اسم تفضیل کا سینہ (خَیْرٌ) کا مخفف ہے اور اس کی مؤنث (خَیْرَةٌ) ہے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَةٌ خَیْرَةٌ لِلنَّاسِ وَخَیْرُهُمْ" الخیر۔ شرف۔ بزرگی۔ کرم۔ اصل۔ ہیئت۔ الخیرة۔ بہت خیر والی۔ ہر چیز سے بہتر ج خیرات۔

الخیرة والخیرة۔ من الشئ والقوم: افضل۔

الخیر۔ پسندیدگی۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ بِالخَیْرِ" یعنی جو چاہو پسند کرو۔ خیر الشئ: چیز میں کا افضل۔ الخیر: بکری۔ واحد (خیراۃ) خیراۃ شئیر۔ الماس۔

الخیرئ۔ ایک قسم کی پھولوں والی نباتات۔ الخیریۃ۔ عمرگی۔ فضل۔ عثمانی سلطنت کا ایک پرائسک۔

الخیر۔ فیاض۔ مؤنث خیرة۔

الأخیر۔ زیادہ اچھا۔ مؤنث خیروی و خوزی ج أخاییر۔

الخوی و الخوزی و الخوزی و الخوزی و الخوزی۔ بہت زیادہ اچھا۔ کہا جاتا ہے رجل خیرئ۔ الخ۔ یعنی بہت خیر والا۔

المختار۔ ضم۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ بِالْمُخْتَارِ" یعنی تم جو چاہو پسند کرو۔

خاس (ض) خیشا۔ اللحم۔ بدبودار ہونا۔ السبع۔ سرد بازاری ہونا۔ سدا ہونا۔

الزجل۔ جھوٹ ہونا۔ ذلیل ہونا۔ الزجل والدایۃ۔ مطیع کرنا۔

خاس (ض) خیشا و خیسانا۔ بالمعهد: بد عمدی کرنا۔ بالفؤعد: خلاف وعدگی کرنا۔

خیسۃ۔ سدھانا۔ ذلیل کرنا۔ کہا جاتا ہے "خیس الخصل" یعنی اس نے اونٹ کو سوار ہو کر سدھایا۔ روکنا۔

الخیس۔ غم۔ گمراہی۔ جھوٹ۔ خیر۔ الخیس۔ گنجان درخت۔ شیر کی جھاری۔ ج۔

أخیساس۔ وودہ۔

الخیسۃ۔ شیر کے رہنے کی جگہ۔ ج خیس الخیس۔ والمختیس۔ جانور کے

أخوی إخواناً۔ الزند: آگ نہ دینا۔ النجوم: بے بارش کے ہونا۔ الرجل: بھوکا ہونا۔ ما عند فلان: سب کچھ لے لینا۔ و خوت: الماطیۃ۔ بہت موٹا ہونا۔

إختوی إخواناً۔ بے عقل ہونا۔ البلد: عبور کرنا۔ ما عند فلان: سب کچھ لے لینا۔ الفرس: اگلی چھیل جانوروں کے درمیان نیزہ مارنا۔

الأخوی۔ عقل و ہوش رفتہ۔ مؤنث خیتا و خویاۃ۔

الخوی و الخویۃ۔ کھانے سے پیٹ کا خالی ہونا۔ دو چیزوں کے درمیان کا خلاء۔ خویۃ الفرس: گھوڑے کے اگلے پچھلے پیروں کے درمیان کا فاصلہ۔

الخوی۔ خالی پیٹ والا۔

الخوی۔ نرم و پست زمین۔

خاب (ض) خیبۃ و تخیب۔ محروم ہونا۔ ناامید ہونا۔ کہا جاتا ہے "خاب سفینہ" یعنی وہ ناکامیاب ہوا۔

خیبۃ و آخابۃ۔ محروم کرنا۔

قدح (خیتاب) آگ نہ دینے والا۔ ہمتا۔

المختیۃ۔ باعث محرومی۔

خات (ض) خیشا و خیشو۔ آواز کرنا۔

خاز (ض) خیرا۔ صاحب خیر ہونا۔

اللذک فی الأمر۔ بہتری کرنا۔

خاز (ض) خیرۃ و خیرۃ و خیرا و خیر۔ الشئ علی غیرہ۔ فیصلت دینا۔ خازۃ: انتخاب کرنا اور اسی سے ہے "اللہم جزلی" اے اللہ میرے لیے دو امر میں سے بہتر کا انتخاب کر۔

خیرۃ و خایرۃ۔ فی الأمر و بین الأمرین۔ پسند کرنے کے لیے اختیار دینا۔ و خایرۃ فی العلم فحازۃ: علم میں مسابقت کرنا اور غالب رہنا۔

تخیرۃ و اختازۃ۔ چن لینا۔ انتخاب کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔

استخاز استخازۃ۔ طلب خیر کرنا۔

اللہ: طلب خیر کی دعا کرنا۔

الخیر۔ ج خیمور۔ بھلائی، نیکی۔ کسی چیز کا اپنے کمال کو پہنچانا۔ ج۔ اختیا و خیار: بہت

جاتا ہے "خانہ العهد أو الأمانۃ" یعنی اس نے عہد یا امانت میں خیانت کی۔ صفت (خاین) ج خوان و خانۃ و خویۃ (خوناً) جسم میں کمزوری اور نظر میں ضعف ہونا۔

خویۃ۔ خیانت کی نسبت کرنا۔ خویۃ و خویۃ منہ و خویۃ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرنا۔ خویۃ و خویۃ۔ گھمبائی کرنا۔ اور اسی سے ہے "کانت الحمیۃ تنخویۃ" اس کو وقت پر بخار آتا ہے۔ تنخویۃ الذہن: آسودگی کو خشی سے بدل دینا۔

إختانۃ۔ خیانت کرنا۔ الصان: چراغا۔ استخانۃ۔ خیانت کرنے کا ارادہ کرنا۔

الخان۔ دکان۔ سرائے۔ ج خانات۔ (دخول) اور خان ترکوں کے بادشاہ کا لقب تھا۔

الخائنة۔ الخاین کا مؤنث۔ الخائنة۔ بہت خیانت کرنے والا۔ "آ" مبالغہ کے لیے ہے۔ جیسے زاویۃ بہت روایت کرنے والا۔

الخوان و الخوان۔ دسترخوان۔ عوام اس کو سفر کہتے ہیں۔ ج أخویۃ و خون۔

الخوی و الخویۃ۔ بہت خیانت کرنے والا۔ الخویۃ۔ بہت خیانت کرنے والا۔ "آ" مبالغہ کے لیے ہے۔

خویۃ الدار۔ تنخویۃ۔ گر جانا۔

النجوم: بغیر بارش ہوئے غروب ہونا۔ الخوی: بھوک۔ کشادہ وادی (و الخوی) شد۔

الخویۃ۔ کشادہ زمین۔

خوی (ض) خویۃ۔ البیت: گرنا۔ خالی ہونا۔ راسہ: کثرت کثیر سے خون سے خالی ہونا (و خوی و خویۃ) بھوکا ہونا۔

الزند: آگ نہ دینا (خیشا) النجوم: بے بارش کے ہونا۔ مائل مغرب ہونا (و خوی و خویۃ) الشئ: ایک لینا۔

خوی (س) خیشا و خویۃ و خویۃ۔ امکان: خالی ہونا۔

خوی خویۃ۔ خیبۃ۔ بیٹھے میں بیٹ کو زمین سے اوتار کرنا۔ الطائر: اڑنے میں بازو لگانا۔

السَّكَّانُ بِالتَّنَابِتِ : ہر ابھرا ہونا۔ اَحْخَالٌ عَلَيَّهِ الشَّيْءُ : بوشاورو مشتبہ ہونا۔

تَحْخَيْلَتِ . السَّحَابَةُ : بارش کی علامتیں معلوم ہونا۔ الزُّجُلُ : تکبیر کرنا۔ لَهْ اَنَّهُ كَذَا : توہم ہونا کہ وہ ایسا ہے۔ فیہ العَيِزُ : معلوم کرنا۔ هُ : فراس ت سے معلوم کرنا۔ علیہ : پسند کرنا اور فراس ت سے غیر معلوم کرنا۔

تَخَائِلُ تَخَائِلًا وَ اِخْتَالَ وَ اِخْتِيَالًا : تکبیر کرنا اور اکر کر چلنا۔

اِسْتَخَالَ . السَّحَابَةُ : برستا ہوا خیال کرنا۔

الغَيْلُ : بادل جس سے بارش ضروری ہو۔ بے بارش کا بادل۔ بجلی۔ غرور۔ بڑا ہماڑ۔ جھنڈا۔ نرم کپڑا۔ سخی و فیاض آدمی۔ مغرور۔ گمان و توہم۔ بے پوی والا۔ کمزور یا کمزور جسم والا۔ چھوٹا ٹیلہ۔ گھوڑے کی لگام۔ کفن۔ بدن کامل۔ ج۔ خیلان۔

الغَيْلَةُ : مغرور عورت۔

الغَيْلُ : بادل۔ گھوڑوں کا گروہ۔ ج۔ خُيُولٌ وَ اِخْتِيَالٌ : اور مجازاً آخیل کا اطلاق سواروں پر بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "اسی بغییلہ و زجیلہ" وہ اپنے سوار اور پیادوں کے ساتھ آیا۔

الغَيْلُ : ہنگ۔

الغَيْلَانُ : ایک دربیانی جانور ہے جس کا نصف حصہ انسان جیسا اور نصف حصہ مچھلی کا سا ہوتا ہے۔

الغَيْلُ : گمان و ہم۔ ج۔ اُخْيَلَةٌ (و۔ الغَيْيَالَةُ) وہ صورت جو خواب میں نظر آئے۔ انسانی شکل۔ ڈراوا۔ یعنی وہ چیز جس کو کھتوں میں کھڑا کر دیتے ہیں چپائے اور پرندے اس کو انسان خیال کرتے ہیں۔

الغَيْيَالُ : مغرور ج۔ خَالَةٌ .

المُخْيَلَةُ : الغَيْيَالَةُ . توت خالیہ۔

الأخْيَلُ : مؤنث تخيلاء۔ ج۔ خَيْلٌ وَ اِخْتِيَالٌ .

والمَخْيَلُ : المَخْيَلُ . بدن میں تل والا۔

الأخْيَلُ : ایک منحوس پرندہ کا نام۔

الأخْيَالُ : مغرور۔ کہا جاتا ہے "رجُلٌ

أَخْيَالٌ"

شتر مرغ کاربوڑ۔ مڈیوں کا دل۔

الغَيْيَاظَةُ : درزی کا پیشہ۔

الغَيْيَاظُ : درزی۔

الغَيْيَاظُ وَ المَخْيِيظُ : سوئی۔

خَيْفٌ (س) خَيْفٌ : ایک نیلگوں اور ایک سرگیں آگہ والا ہونا۔ صفت (أَخْيِفٌ) مؤنث خَيْفَاءُ ج۔ خَيْفٌ .

خَيْفٌ : عَنِ الْقِتَالِ : روگردانی کرنا۔

القَوْمُ : کسی جگہ میں اترنا۔ خَيْفَتِ المرأَةُ بَأَوْلَادِهَا : خیاں بھائیوں کی ماں ہونا۔

تَخَيْفٌ : الوَائِي : مختلف رنگوں والا ہونا۔

الخَيْفُ : دامن کوہ میں ہر بلند پست زمین۔ پانی بہنے کی جگہ سے بلند جگہ۔ تھن کی کھال۔

الخَيْفَةُ : چھری۔ شیر کی جھاری۔

الخَيْفَاءُ : کٹھارہ تھنوں والی۔ ج۔ خَيْفَاوَاتٌ وَ خَيْفٌ .

الأَخْيَافُ : مختلف لوگ۔ کہا جاتا ہے "ہم اِخْوَةٌ أَخْيَافٌ أَوْ بَنُو أَخْيَافٍ" یعنی ان کی ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہیں۔

الخَيْفَانُ : لوگوں کی کثرت۔ مختلف رنگوں والی مڈی۔ ایک قسم کی پہاڑی گھاس۔ واحد (خَيْفَانَةٌ) .

خَالَ يَخَالُ خَيْلًا وَ خَيْلًا وَ خَالَ وَ خَيْلَةً وَ خَيْلَةً وَ خَيْلَانًا وَ خَيْلَوَةً وَ مَخْيَلَةً .

الشَّيْءُ : خیال کرنا۔ گمان کرنا اور واحد متکلم مضارع کا صیغہ اِخَالَ وَ اَحْخَالَ اور بکسر ہمزہ زیادہ فصیح ہے۔

خَيْلٌ تَخْيَلُ وَ تَخْيَلُ : علیہ : تمت لگانا و (خَيْلٌ تَخْيَلُ) السَّحَابُ : گر جتا چکنا اور

برسنے کے لیے تیار ہونا۔ فِیہ الخَيْزُ : معلوم کرنا۔ عَنِ الْقَوْمِ : کمزور بزرگ ہونا۔

خَيْلٌ : إِلَيْهِ وَ لَهُ أَنَّهُ كَذَا : توہم ہونا کہ وہ ایسا ہے۔

خَائِلَةٌ : فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

خَائِلَتِ السَّحَابَةُ : بارش کی امید دلانا۔

أَخْيَلَتِ السَّمَاءُ : برسنے کیلئے تیار ہونا۔

النَّفَاقَةُ : تھنوں میں دودھ والی ہونا۔

(وَأَخَانَ) القَوْمُ : ایسے بادل کو دیکھنا جس کے متعلق خیال ہو کہ برے گا۔ (أَخْيَلُ وَ اِخْتَالَ)

سردھانے کی جگہ۔ قید خانہ۔

خَاشٌ (ض) خَيْشًا : مافی الوعاء : نکالنا۔

الخَيْشُ : کٹاں کا گھرورا کپڑا۔ ج۔ خَيْشُشٌ وَ اَخْيَاشٌ : واحد (خَيْشَةٌ) کینہ آدمی۔

الخَيْشَاشُ : کٹاں کا گھرورا کپڑا بیچنے والا۔ خَاصٌ (ض) خَيْصًا : کم ہونا۔ صفت (خَائِصٌ) .

خَيْصٌ (س) خَيْصًا : ایک بڑی ایک چھوٹی آگہ والا ہونا۔ صفت (أَخْيِصٌ) مؤنث (خَيْصَاءُ) .

الخَيْصُ : تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "بَلَّتْ مَنَّةٌ خَيْصًا خَائِصًا" میں نے اس سے تھوڑی چیز حاصل کی۔

الخَيْصِيُّ : تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "فِی المَرْغُوعِ خَيْصِي مِنَ العُشْبِ" چراگاہ میں تھوڑی سی گھاس ہے۔ الخَيْصِيَانُ : تھوڑا مال۔

خَاطٌ (ض) خَيْطًا : الثَّوْبُ : سینا۔ صفت فاعلی (خَائِطٌ وَ خَائِطٌ وَ خَيْطٌ) اور صفت مفعولی (مَخْيُطٌ وَ مَخْيُوطٌ)۔ الخَيْتَةُ : زمین پر ریتکا اور اسی سے ہے "هَذَا مَخْيُوطٌ الخَيْتَةِ" یہ سانپ کے ریگنے کی جگہ ہے۔ خَاطٌ إِلَيْهِ خَيْطَةً : ایک ہی دفعہ یا جلدی سے گزر جانا۔

خَيْطٌ : الشَّيْءُ فِي رَاصِهِ : بڑھاپا شروع ہونا۔ تَخَيْطٌ : زَادَهُ بِالشَّيْءِ : بڑھاپا شروع ہونا۔ اِخْتَاطٌ وَ اِخْتِطَى : إِلَيْهِ : ایک ہی دفعہ یا جلدی سے گزر جانا۔

الخَيْطُ : بے دھاکہ۔ ج۔ خَيْطُوطٌ وَ خَيْطُوطَةٌ وَ اَخْيَاطٌ : مِنَ النِّعَامِ : شتر مرغ کاربوڑ۔

مِنَ الجَزَادِ : مڈیوں کا دل۔ ج۔ خَيْطَانٌ . الخَيْطُ الأَبْيَضُ : صُحٌّ كِ سفیدی۔ الخَيْطُ الأَسْوَدُ : رات کی سیاہی۔ الخَيْطُ مِنَ الرَّقَبَةِ : حرام مغز۔ کہا جاتا ہے "جَاحِشٌ عَنِ خَيْطِ رَقَبَتِهِ" اس نے اپنے خون سے برائعت کی۔ خَيْطٌ بَاطِلٌ : ترمے یعنی وہ چیز جو گرمی کے زمانہ میں دوسرے گرمی کے جانے کی مانند نفا میں اترتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

الخَيْطُ وَ الخَيْطِيُّ : مِنَ النِّعَامِ أَوْ الجَزَادِ :

<p>الخام۔ ہر وہ چیز جس میں ابھی ہاتھ نہ لگا ہو جیسے ہیرا جو ابھی صاف نہ کیا گیا ہو۔ پتھر جو تراشا نہ گیا ہو۔ چیزا جس کی دباغت نہ ہوئی ہو۔ کپڑا جو ابھی دھویا نہ گیا ہو۔ روئی کا بنایا ہوا۔ ج اخوام۔ الخام موی۔ الخامة۔ ترو تازہ گھاس۔ ج خام و خامات۔ الخيمة ذبہ۔ ہر وہ مکان جو اینٹ، پتھر اور نئی دھیرہ سے نہ بنا ہو۔ ج خیم و خیم و خیمات و خیمات و خیم۔ الخیم۔ ہودے۔ الخیم۔ خیمہ میں رہنے والا () الخیمی خیمہ بنانے والا یا بیچنے والا۔ الخیم۔ وہ جگہ جہاں خیمے نصب ہوں۔</p>	<p>_____ القوم فی القتال: جنگ میں کامیاب نہ ہونا _____ رجلہ پاؤں اٹھانا۔ خیم۔ خیمہ لگانا۔ خیمہ میں اقامت کرنا _____ بالمکان: اقامت کرنا۔ خیمت الکرمۃ: خیمہ کی مانند ہونا۔ خیمت البقر: اپنے تھان پر کھڑے رہنا _____ الريح فی الثوب: کپڑے میں خوشبو کو بانا۔</p> <p>أخام إخماءً وأخیم إخیاماً۔ الخیمۃ نصب کرنا _____ الفرس: تین تا گوں پر کھڑا ہونا۔</p> <p>تخیم: المکان و بالمکان و فیہ: بُد میں اپنا خیمہ نصب کرنا۔ تخیمت الریح الضبۃ بالثوب و فیہ: بھڑک اٹھنا۔ الخیم: طبیعت۔ خصلت۔ تلوار کا جوہر۔</p>	<p>الخیال۔ شسوار۔ گھوڑے والا۔ ج خیالۃ۔ الخیلاء۔ و الخیلاء و الخیلة۔ تکبر و غرور۔ السحابۃ (المخیلة و المخیلة و المخیلة و المخیلة) بادل جس کے برسنے کی امید ہو۔ الخیال: خیر سے ڈرانے والا۔ کلام مخیل: دشوار کلام۔</p> <p>المخیال۔ من السحاب: بارش سے ڈرانے والے بادل۔ اور اسی سے ہے "ظہوت فیہ مخیال التجایۃ" اس کے اندر شرافت کی علامتیں ظاہر ہوگیں۔</p> <p>أرض (مخیلة و مخیلة) خام یخیم خیمًا و خیمًا و خیمًا و خیمًا و خیمًا و خیمًا۔ اقامت کرنا _____ عنہ: بزدل ہونا۔ روگردانی کرنا</p>
--	--	--

دَبَّ (ض) دَبَّأ و دَبَّيْنَا۔ ریختنا۔ ہاتھوں یا پیروں کے بل چلنا۔ کہتے ہیں "هُوَ كَذَبٌ مِنْ دَبِّ وَ دَرَجٍ" وہ زندوں اور مردوں سے زیادہ جھوٹا ہے۔ السَّقْمُ فِي الْجَسْمِ او النَّبْلِ فِي الثَّوْبِ: بیماری کا جسم میں اور کھسکی کا کپڑے میں سرایت کرنا، اثر کرنا۔ الْجَدْوَلُ: نمر کا جاری ہونا اور کہا جاتا ہے "دَبَّتْ عَقَارِبُهُ" اس نے تفرقہ اندازی کیلئے چغل خوری کی۔ دَبَّ الشَّيْخُ: آہستہ چلنا۔

أَدَبٌ۔ الصَّبِيُّ: ہاتھ پیروں پر چلانا۔ إِلَى أَرْضِهِ جَدْوَلًا: نمر جاری کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَدَبُ الْبِلَادِ" اس نے ملک کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ و "هُوَ يُدَبُّ عَلَيْنَا عَقَارِبُهُ" يُخْرِشُ عَلَيْنَا أَقَارِبَهُ" یعنی وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔

الدَّبُّ: ریچھ۔ جِ أَدْبَابٌ وَ دَبِيَّةٌ۔ مَوْثٌ دَبِيَّةٌ۔ الدَّبُّ الْأَكْبَرُ وَ الدَّبُّ الْأَصْفَرُ: بنات النعش کے ستاروں کا مجموعہ۔ کہا جاتا ہے "رَكِبْتُ دَبَّ فُلَانٍ" او دَبِيَّةٌ فُلَانٍ" اس نے فلاں کا طریقہ اختیار کر لیا۔

الدَّبِيَّةُ: تیل وغیرہ کا برتن۔ بول کی شکل کا شیشہ کا برتن۔ بہت رتلی جگہ۔ جِ دَبَابٌ۔ مَنه كَارُوا۔ جِ دَبَّ: کہا جاتا ہے "لَيْسَ فِي الدَّارِ دَبِيَّةٌ" اَوْ دَبِيَّةٌ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔ اس کا استعمال صرف نئی کی صورت میں ہوتا ہے۔

الدَّبَبُ: زواں۔ بال کی کثرت۔ گائے کا نو مولود۔ ہچڑا۔

الدَّبَابُ: تیز ریختنے والا۔ ناتوانی سے آہستہ چلنے والا۔ مَوْثٌ دَبَابَةٌ۔

الدَّبَابَةُ: ایک آلہ کا نام جس کو محاصرہ میں

الدَّأَصُ۔ مَوْتًا۔

دَأَخَ (ف) دَأَخًا۔ الإِنَاءُ: بھرنا۔ الرَّجُلُ: باوجود شکم سیری کے کھانے پر مجبور کرنا۔ غَضَبٌ وَ لَانًا: گلا گھوٹنا۔ الفَرْحَةُ: دبا کر نچوڑنا۔

دَأَخَ (ف) دَأَخًا۔ مَوْتًا هُوَ۔

دَأَى (ف) دَأَى وَ دَأَى وَ دَأَى۔ سُتَ چلنا۔ لَهْدًا وَ دَأَى وَ دَأَى۔ فَرِيحٌ رِيحٌ۔

دَاءٌ لَهُ مُدَاءٌ لَهُ۔ دھو کرنا۔ تیز چلنے میں مقابلہ کرنا۔

دَوَّالَةٌ۔ لَوْمِزِيٌّ کے لئے علم جنس ہے۔

الدَّالُّ وَ الذَّنْبِلُ وَ الذُّؤْلُ وَ الدَّالَانُ۔ گیدڑ۔ بھیریا۔ نیولے کی مانند ایک جانور۔

الدُّؤْلُولُ۔ مصیبت۔ جِ دَائِلٌ۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَ الْقَوْمُ فِي دُؤْلُولٍ" لوگ مصیبت میں پڑ گئے۔

دَأَمَ (ف) دَأَمًا۔ الحَائِظُ: سارا رتا۔ الرَّجُلُ: کوہ کو سوار ہونا۔

تَدَأَمَةُ۔ المَاءُ: زحانپ لینا۔ تَدَأَمَتِ السَّمَاءُ: لگا کر برسا۔

تَدَاءَمَتْ۔ عَلَيْهِ الْهُمُومُ وَ الْأُمُومُ: ہجوم کرنا۔

الدَّأَمُ۔ ہر وہ چیز جو ہمیں چھپالے۔

الدَّأَمَاءُ۔ سمندر۔

دَأَى يَدَاؤُ وَيَدَأَى دَأَوًا وَ دَأَانًا۔ الذَّنْبُ لِلصَّبِيءِ: دھو کے سے ڈکار کرنا۔

الدَّأَى: سینے کی پالیوں کے ٹٹنے کی جگہ۔ جِ دَأَايَاتُ۔

(ابن دَابِيَّةٌ) كَوَا۔

الدَّأِيَّةُ۔ دَالِيٌّ جِ دَأَايَاتُ۔

دَأَبٌ (ف) دَأَبًا وَ دَأَوًا وَ دُؤْوِيًّا۔ فِي الْعَمَلِ: لگاتار جانفشانی سے کرنا۔ صفت (دَائِبٌ وَ دُؤْوِيٌّ)۔ (دَأَبًا وَ دَأَابًا) الدَابِيَّةُ: تیز ہانکنا۔ دُؤْوِيًّا۔ دُؤْوِيًّا۔

أَدَابُهُ إِذَا بَا۔ تھکانا۔ لگاتار کوشش کرنے کا حاجت مند ہونا۔

الدَّأَبُ وَ الدَّأَبُ۔ عَارَتُ۔ حالت۔

الدَّائِبَانُ۔ رات دن۔

الدَّأَبُ۔ تھکانا۔

دَأَتْ (ف) دَأَاتًا۔ بوجھل ہونا۔

الثَّوْبُ: میلا ہونا۔ الثَّوْبُ: میلا کرنا۔ الطَّعَامُ: کھانا۔

الدَّنْثُ۔ سخت کینہ۔

الدَّأَاءُ۔ باندی۔ لَوْمِزِيٌّ۔ جِ دَأَتْ ابْنُ دَأَاءٍ۔

يَبِيئُ قَوْمٌ۔ دَأَا دَأَا دَأَاءً وَ دِنْدَاءً۔ تیز دوڑنا۔

فِي أَنْرِهِ: کھوج لگانے کیلئے پیچھے جانا۔ الشَّيْءُ: ڈھانپنا۔ حرکت دینا۔ ٹھہرنا۔

القَوْمُ: باہم ہجوم کرنا۔ تَدَأَا۔ بٹنا۔ ٹھہرنا۔ فِي مَشْيِهِ: لڑکھڑانا۔

عَنْ فَرِيحِهِ: گرنا۔ الدَّأَا وَ الدَّأَاءُ وَ الدَّأَاؤُ وَ الدَّأَاءُ: قَوْمٌ

اللَّيَالِي: سخت تاریک رات۔ جِ الدَّأَائِي۔ الدَّؤُوذُ: سینے کا آخر۔ بقول بعض 'بجیسوس' جیسوس' ستائیسوس رات۔ اور بقول بعض 'اٹھائیسوس' اٹھائیسوس رات۔ جِ دَأَائِي۔ الدَّارُ

صَبِيئِي۔ دار چینی۔ دَبِيصٌ (س) دَأَصًا۔ اِتْرَانًا۔ البَجِيئِيُّ: موناو پر گوشت ہونا۔

استعمال کیا کرتے تھے اور اس کے خوف میں داخل ہو کر قلعہ کی دیواری جڑ میں پہنچ جاتے تھے اور خوف میں رہتے ہوئے لقب لگاتے تھے۔ ج۔ ذَبَابَاتُ الدَّبَابَةِ: ٹیک یعنی مسلح جنگی موٹر۔ الدَّبَابَةُ: رینگنے والا۔ چھوٹا کڑا جو پانی میں کھیلتا رہتا ہے۔

الدَّبَابُ وَالذَّبَابُ: موزی۔ چغل خور۔ گمراہ۔ ہرمونی تازی چیز۔ الدَّبَابَةُ: الدَّبَابُ کا مؤنث۔ ہر رینگنے والا جانور۔ سواری کا جانور۔ بوجھ لانے کا جانور۔ مذکر و مؤنث دونوں کے لئے مستعمل ہے اور اس میں تاودت کی ہے۔ ج۔ ذَوَابٌ: تصغیر (الدَّوَابَّةُ) الدَّبَابَةُ۔ کدو۔ واحد (دَبَابَةٌ) الدَّبَابُ۔ نروال۔ بالوں کی کثرت۔ الأَدْبُ: بہت بالوں والا۔ بہت روکیں والا۔ مؤنث دَبَابَةٌ۔ بہت بالوں والا اُونٹ۔

المَدْبُ: جاری ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "مَدْبُ السَّبَلِ" سیلاب بننے کی جگہ۔ و "مَدْبُ التَّمَلِّ" چبوتیوں کے چلنے کی قطار۔ أَرْضٌ مَدْبَةٌ: بہت رچیوں والی زمین۔ دَبَاهٌ (ف) دَبَابٌ: لامحی سے مارنا۔

الشَّيْءُ: ساکن ہونا۔ دَبَاهٌ وَدَبَابٌ عَلَيْهِ: چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔ دَبَجَهُ (ن) دَبَجًا وَدَبَجَةً: نقش کرنا۔ مزین کرنا۔ خوبصورت بنانا۔ الظِّلْسَانُ: ریشمی کپڑا لگا کر مزین کرنا۔

الدَّبِيحُ: ریشمی کپڑا۔ ج۔ دَبَابِحٌ وَدَبَابِيحٌ: واحد (دَبِيحَةٌ) و (الدَّبِيحَاتُ) چروہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَبْضُونُ دَبِيحَتَهُ" فلاں اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ و "فَلَانٌ يَبْذُلُ دَبِيحَتَهُ" فلاں اپنی آبروریزی کرتا ہے۔ "دَبِيحَةُ الْكِتَابِ": کتاب کا پیاچہ۔ الدَّبِيحَاتَانِ: دونوں رخسارے۔ دَبِيحَةُ الْوَجْهِ: چروہ کی رونق۔ الدَّبِيحُ: جوان اونٹنی۔

الدَّبَاجُ: ریشمی کپڑے کا بیچنے والا۔ المَدْبِيحُ: ریشمی کپڑے سے مزین کیا ہوا۔ بد شکل۔ ایک بد شکل آبی نرندہ۔ الو۔ دَبَجٌ: سر جھکا کر ڈیٹھ جھانا۔ ذَبِيلٌ: ہونا۔

فِي بَيْتِهِ: گھر میں سے رہنا۔ دَبَجٌ: بمعنی دَبَجٌ۔

ذَبَذَبَ ذَبَذَبَةً: الحَافِظُ عَلَيَّ الْأَرْضِ: ٹاپ سے آواز نکلتا۔

الذَّبَابُ: دُحُولٌ۔ طبل۔ ج۔ ذَبَابِيحٌ۔

ذَبْرٌ (ن) ذَبْرًا وَذَبْرًا: النَّهَارُ أَوْ الصَّبْحُ: گزر جانا۔ ختم ہونا۔ الرَّجُلُ: مرنا۔ پست پھیرنا۔ بوزھا ہونا۔ الرِّيحُ: پھجوائی رخ پر ہو جانا۔ (ذَبْرًا) الذَّبْرُ: السَّهْمُ الْمَهْدَفُ: نشانہ سے بہت جانا۔ الْكِتَابُ: نقل کرنا۔ بِالشَّيْءِ: لے جانا۔ ه: پیچھے آنے۔ الْحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

ذَبْرٌ: پھجوائی ہوا لگنا۔ ذَبْرٌ (س) ذَبْرًا: التَّبَعِيُّ: کیا وہ وغیرہ سے زخمی پیچھے والا ہونا۔ صفت (ذَبْرٌ)

ذَبْرٌ: الْأَمْرُ: غور کرنا۔ انجاء سوچنا۔ انقضاء کرنا۔ الْحَدِيثُ: دوسرے سے روایت کرنا۔ عَلَى هَلَاكِهِ: کسی کی ہلاکت کیلئے حیلہ اور کوشش کرنا۔

ذَابَرٌ مَذَابِرَةٌ وَذَبَابًا: مرنا۔ ه: دشمنی کرنا۔

أَذْبَرُ: البَعِيضُ: زخمی پیچھے والا ہونا۔ أذْبَرَهُ: القَتَبُ: پیچھے زخمی کرنا۔ فُلَانٌ: مرنا۔ پھجوائی ہوا میں داخل ہونا۔ عَنَهُ: پیچھے پھیرنا۔ ه: پیچھے کرنا۔ أَذْبَرَتِ الدُّنْيَا: اقبال کا ختم ہونا۔ الامْرُ: ختم ہونا۔ الرَّجُلُ: بدھ کے دن سفر کرنا۔ تَذَبَّرُ: الامْرُ: انجاء سوچنا۔ تَذَابَرُ: القَوْمُ: باہم دشمنی کرنا۔ اختلاف کرنا اور قطع تعلقات کرنا۔

اِسْتَذْبَرَهُ: پست زنا۔ اختیار کرنا اور جتھو کرنا۔ الامْرُ: غیر متوقع طور پر نتیجہ کا سامنے آنا۔ الذَّبْرُ: شمد کی کھپوں یا بھڑوں کا بھندہ۔ واحد (ذَبْرَةٌ) ج۔ أذْبَرٌ وَذَبْرٌ: بہت مال۔ موت۔ پہاڑ۔ سمندر میں جزیرہ کی مانند زمین کا ٹکڑا جس پر جواری بھانا ہوتا ہو۔ کسی چیز کے پیچھے۔ تم کہتے ہو "جَعَلَ كَلَامِي ذَبْرًا أذْبَرِيهِ" اس نے میری بات سے

غفلت کی اور متوجہ نہیں ہوا۔

الذَّبْرُ: بمعنی الذَّبْرُ۔ بہت مال۔ واحد ہے مفرد اور جمع دونوں کیلئے ہے۔ کہا جاتا ہے "مَالٌ ذَبْرٌ وَاَعْوَالٌ ذَبْرٌ"

الذَّبْرُ وَالذَّبْرُ: مِنْ كَثَلِ شَيْءٍ: پچھلا حصہ۔ ج۔ أَذْبَارٌ: ذَبْرُ الصَّلَاةِ: نماز کا آخر۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ أَذْبَارَ الشَّهْرِ وَفِي ذَبْرِهِ وَفِي ذَبْرِهِ" جَاءَ أَذْبَارَ الشَّهْرِ وَفِي أَذْبَارِهِ": وہ مہینہ کے آخر میں آیا۔ ذَبْرُ النَّبِيِّ: گھر کا گوشہ۔

الذَّبْرَةُ: انجاء۔ لڑائی میں شکست۔ قابل کاشت زمین۔ ج۔ ذَبَارٌ۔

الذَّبْرُ: زخمی پیچھے والا جانور۔ الذَّبْرَةُ: جت پست۔ کہا جاتا ہے "لَيْتَن لِهَذَا الْأَمْرِ قَبْلَةَ وَلَا ذَبْرَةً" یعنی اس معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے۔

الذَّبْرَةُ: جانور کی پیچھے کا زخم جو کجاوہ وغیرہ سے ہو جائے۔ ج۔ ذَبْرٌ وَأَذْبَارٌ۔

الذَّبَارُ: ہلاکت۔

الذَّبَارُ: کھیتوں کی ٹالیاں۔ لڑائیاں۔ کھیتیں۔ الذَّبْوَرُ: پھجوائی ہوا۔

الذَّبِيرُ: مِنَ الرَّجُلِ: پیچھے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَا يَعْرِفُ قَبْلَهُ مِنْ ذَبِيرِهِ" وہ اپنے آگے پیچھے کو نہیں پہچانتا۔ زیادتی، جمالت کے لئے بطور کنایہ کے بولتے ہیں۔ گناہ۔ کہا جاتا ہے "عَوَفَ قَبْلَهُ مِنْ ذَبِيرِهِ" اس نے طاعت اور مصیبت میں تمیز کر لی۔

الذَّبْوَرُ: شکل و صورت۔ ج۔ ذَبَابِيرٌ۔ الذَّبْوَرَةُ: پتھروں کو ہموار کرنے کا اوزار۔ فصیح لفظ "الصَّافِرُ" ہے۔

الذَّبْوَانُ: چاند کی ایک منزل کا نام جو بحر ثور کے پانچ ستاروں پر مشتمل ہے۔

الذَّبَابُ: فَا: تالچ۔ ہر چیز کا آخری اصل۔ گزرا ہوا۔ جیسے "أَمْسَ الذَّبَابُ" گزشتہ کل۔ اور یہ تاکید کے لئے ہے جیسے "زَأَيْتَهُ بَعِينِي" بولتے ہیں۔ نشانہ پر نہ لگنے والا تیر۔ جوئے کے تیروں میں سے ناکامیاب تیر۔ کہا جاتا ہے "مَابِقِي فِي الْكِنَانَةِ" غنیر الذباب" ترکش میں سوائے دار کے کچھ باقی نہ رہا۔ اور کہتے ہیں "قَطَعَ اللَّهُ دَابِرَهُمْ" اللہ ان

الذنبی۔ چھوٹی ٹڈی۔ چوٹی۔ واحد (ذباة)
 دث (ن) دثاً۔ الصیادۃ: کسی چیز سے شکار
 کرنا۔ دثہ۔ تکلیف دہ مارنا۔ ہٹا دنا۔ چمراؤ کرنا۔
 دثت (ض) دثاً۔ السماء: ہلکی بارش ہونا۔
 الدث والدثت والدثات۔ ہلکی بارش۔
 الذئفۃ۔ معمولی زکام۔
 الذئوث۔ ہٹ جانے والا۔
 الذئاث۔ گوجھن سے پرندوں کا شکار کرنے
 والے۔ واحد (ذاث)
 ذئو (ن) ذئوڑا۔ الرسم: مٹنے لگنا۔ صفت
 (ذائو) ج ذوائو الثیغ۔ السیف: زنگ آلود
 ہونا۔ السخو: بچے لگنا۔
 الثؤب: میلا ہونا۔ الرجل: بڑھاپے
 کے آثار نمایاں ہونا۔
 ذئوۃ ہلاک کرنا۔ چادر سے ڈھانپنا۔
 الطائو: گھوسلہ بنانا۔
 تذئو واذئو۔ بالثؤب: اوڑھنا۔ صفت
 (مذئو) و (مذئو) اس کی اصل مذئو ہے تاکو
 دل میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ و تذئو فرسہ: کود کر
 سوار ہونا۔
 انذئو۔ ثنا۔ ناپید ہونا۔
 اذئو۔ بہت مال جمع کرنا۔
 تذائو۔ التوسم: مٹنے لگنا۔
 الذائو۔ فہلاک ہونے والا۔
 الذئو۔ بہت۔ حال ذئو۔ بہت مال کہا جاتا ہے
 "حال ذئو و حالان ذئو و أموال ذئو" اور کبھی
 ذئو جمع ہوتے ہیں۔ رجل ذئو: غافل۔ مردھو
 (ذئو) حال: وہ مال کا بہتر تنظیم ہے۔
 الذئو۔ میل پگیل۔ اور کہا جاتا ہے غمشکو
 ذئو۔ بہت فوج۔
 الذئار۔ بدن سے لے ہوئے کپڑے کے اوپر کا
 گرم کپڑا۔ سونے والا جس کپڑے کو اوڑھ کر
 لیٹے۔
 الذئور و الذئاری۔ کابل۔ سف۔ گنام۔ بہت
 سونے والا۔
 الأذئر۔ غافل۔
 ذئظ (ن) ذئظا۔ القرحة: تشو کا کہہ دینا۔
 ذئع (ف) ذئعا۔ سخت روندنا۔

الذیع و الذبغ و الذباغ و الذباغة۔ چڑا پکانے
 کا سال۔
 جلد (ذیع) پکائی ہوئی کھال۔
 الذباغة۔ چمڑے کی پکائی کا پیشہ۔
 الذباغ۔ چمڑے کو پکانے والا۔
 المذبغة و المذبغة۔ چڑا پکانے کی جگہ۔ چمڑے
 جو پکانے کے لئے سال میں ڈالے گئے ہوں۔
 ذبیق (ض) ذبقا۔ الصائد الطیور: لاسر سے
 شکار کرنا۔
 ذبیق (س) ذبقا۔ بہ: چمڑنا۔
 ذبقۃ۔ لاسر سے شکار کرنا۔
 اذبقہ۔ چمکانا۔
 تذبق۔ الطیور: لاسر سے شکار ہو جانا۔
 الشئ: لیس دار ہونا۔
 الذبیق و الذابوق و الذبوقاء۔ پرندوں کے
 شکار کرنے کا لاسر۔
 ذبل (ن) ذبلاً و ذبؤلاً۔ الارض: کھار ڈالنا
 الشئ: درست کرنا۔
 ذبلہ (ن ض) ذبلاً۔ بالقصا: لگا تار لاشی سے
 مارنا۔ کہا جاتا ہے "ذبلتہ الذبؤل" اس پر مصائب
 پڑے یا اس کی مال نے اسے گم کر دیا۔
 () و ذبل اللقمة: بڑا لقمہ لینا۔
 الشئ: انگلیوں سے جمع کرنا۔
 ذبل (س) ذبلاً۔ موٹا ہونا۔
 الذبل۔ ہم۔ پگی۔ مصیبت۔ اولاد کی موت۔ تالا۔
 ج ذبؤل۔
 الذبلة۔ بڑا لقمہ۔ ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلباڑی کا
 سوراخ۔ ج ذبل و ذبل۔
 الذبلة و الذبيلة۔ مصیبت۔ پیٹ کی ایک
 بیماری۔ پیٹ کا پھوڑا۔
 الذبال۔ کھاد۔
 الذبؤل۔ عورت۔ جس کا بچہ مر گیا ہو۔ ہلاکت و
 مصیبت۔
 الذؤیل۔ زسور۔ چھوٹے قد کا گدھا۔
 ذبیت۔ الأرض: چھوٹی ٹڈیوں کا کھیتی کو کھا
 جانا۔ صفت (مذبیة و مذبؤة)۔
 اذبت۔ الأرض: بکھرت چھوٹی ٹڈیوں والی
 ہوت۔

کی جڑ کو کٹ دے۔
 الذابرة۔ الذابور کا مؤنث۔ کھلت۔ بدفالی۔
 نحوت۔ انسان کی ایزدی کا پھما۔ ذابرة الطیور:
 پرندے کے پاؤں کا خراج ذواہر۔
 الذبیری۔ نماز جو آخر وقت میں ادا کی جائے۔
 الذبیری۔ وقت ختم ہو جانے کے بعد آنے
 والا۔ "شئ الزای الذبیری" یعنی وہ رائے بری
 ہے جو وقت گزر جانے کے بعد سمجھ میں آئے۔
 و "جاء ذبیراً" وہ آخر میں آیا۔
 المذابر۔ ناکامیاب تیر والا۔
 المثقابل و المذابر۔ نجیب الرفیق۔ شریف
 ماں باپ والا۔
 المذبور۔ زخمی۔ بہت مال والا۔
 دبش۔ الشئ: چھپانا۔ الشئ: چھپنا
 العتب: شصا ہونا۔ العصیو
 المعلی: گاڑھا ہو جانا۔ الرجل
 العصیو: پکا کر گاڑھا کر دینا۔
 اذبت۔ الأرض: کھا لگنا۔
 اذبت۔ اذبتسا۔ الفرس: سرخ سیاہ ہونا۔
 صفت (اذبت)
 الذبس۔ ہر کال چیز۔ بہت تعداد۔ کہا جاتا ہے
 "حال ذبت" بہت مال۔
 الذبس۔ پکایا ہوا گاڑھا شیرہ۔
 الذباس۔ شیرہ بنانے والا بیچنے والا۔
 الذبس۔ شہد۔ گجور کا شیرہ۔
 الذبسة۔ سیاہی ملی ہوئی سرفی۔
 الذبوس و الذبوس۔ آہنی گرز۔ ج ذبابیس۔
 دبش (ن) ذبشا۔ الشئ: چمکا آتارنا
 الطعام: کھانا۔
 الذبش۔ گھر کا سامان۔ روی سامان۔ مکان
 (مذبوش) وہ جگہ جہاں کی پیداوار کو ٹڈیوں نے
 کھایا ہو۔
 سئل (ذباش) ہر چیز کو ہمالے جانے والا
 سیلاب۔
 ذیع (ف ن ض) ذبعا و ذباغا و ذباغة۔
 الجلد: کھال کو پکانا۔
 اذیع۔ کھال کا نرم ہونا اور اس سے رطوبت
 اور بہد بوزا نکل ہونا۔

ہوتا۔	ہوتا۔	إِدْجِيحَاءٌ: اللَّيْلُ: تَارِكٌ هُوَا- اُدْجِي النَّبِيْتُ: بِرُودِ الْكَلْبَا- الذُّجَّةُ: قَيْسٌ كَابُنٌ- تَمِينٌ الْكَلْبَانُ مَعَ لَقَبٍ كَيْ- جِدْحَاتٍ وَذُجْبِي- الذُّجِيَّةُ: تَارِكِي يَابُولُ كِي تَارِكِي- شَكَارِي كَيْ كَلْمَاتِ كِي جَلْدِ- جِذْجِي- الذَّاجِي- فَا _____ مِنْ الْعَيْشِ: آسُووُ كِي نِعْمَةٌ ذَائِجِيَّةٌ: كَالِ نِعْمَتِ- لَيْلٌ (ذُجْبِي) تَارِكِي رَاتِ- الذَّيَاجِي: تَارِكِيَا- ذَحَّ (ن) ذَحَا- الشَّيْ فِي الْاَرْضِ: جِجِيَا _____ الْظَّهَامُ يَنْفُثُهُ: شُكْمٌ سِرِّي سَيْ لَبَّ آتَا- الرُّجْلُ: كَدِي كَلَا كَرْدِي كَلِيَا النَّبِيْتُ فِي الْقَرْبَى: كَشَاهُ كَرَا- إِنْدَحَّ اَنْدَحَا: يَنْفُثُهُ: كَشَاهُ هُوَا- الذَّحْدَحُ وَالذَّحْدَحَةُ وَالذَّحْدَا وَالذَّحْدَاةُ وَالذَّحَادِحُ وَالذَّحْدِيحَةُ- بِرِ تَدَ- ذَحَبَ (ف) ذَحْبًا: دَفَعُ كَرَا (_____ ذَحْبًا وَذَحَابًا الْجَارِيَةَ: بَمَاعِ كَرَا- الذُّحْبَةُ: كَبْرُو كِي كَالِ- ذَحْحَةُ (ف) ذَحْحًا: زَمِيْنَ پَرِ گھيٹَا- ذَحْحُ الْجَارِيَةَ: جَمَاعِ كَرَا- ذَحْرَهُ (ف) ذَحْرًا وَذُحْرًا وَمَذْحَرَةً دَحَكَرَا- دُورِ كَرَا- دَفَعُ كَرَا- صِفَتِ قَاعِلِي (مَذْحَرُو ذُحْرُو) صِفَتِ مَفْعُولِي (مَذْحُرُو) ذَحْرَجَهُ: لُزْهَكَرَا- تَدَحْرَجَ: لُزْهَكَرَا- الذُّحْرُو جَةُ: كَبْرِيَا كِي كُولِي جِسْ كُو لُزْهَكَرَا كَرَلِي جَاآ- جِ ذَحَارِيَجِ- الذُّحْرُ: حَتْمٌ وَمَضْبُوطٌ- ذَحَسَ (ف) ذَحْسًا: بَيْنَ الْقَوْمِ: قَسَاوُ اَلْنَا _____ الشَّيْ: يَمْرَا _____ پَرِ خَلِيهِ: كَرِيَا الْجَزَا: كَهَالِ اَنَا رَنِي كَلِي كَهَالِ مِي هَاتِهِ دَاغِلِ كَرَا- النَّوَبُ فِي الْوُعَا: كَبْرُو كُو بِرْتَنِ مِي دَاغِلِ كَرَا _____ بِالشُّو: خَفِيهِ طَرِيقَةُ سَمْرَا كَبْرُو كِي كَرَا- _____ وَادْحَسَ الشُّبُلُ: دَاوُنُو سَمْرَا
ذَحْسَتْ (س) ذَحْسًا: اَضْفَعُهُ: اَنْكَلِي كَا سُو جَا- صِفَتِ (مَذْحُوْس) اُورِ اَنْكَلِي كُو مَذْحُوْسَةٌ كَتِي پيں- الذَّحَاْسُ- مِنْ النَّبِيُوْتِ: آدَمِيُو سَمْرَا هُوَا گھر- الذَّحَاْسُ وَالذَّحَاْسُ- اِيَكِ زُرُورِ گِ كَا كَبْرُو زَمِيْنِ كَيْ اَنْدَرِ رَهْتَا ه- جِ ذَحَاَسَاتِ وَذَحَاَجِيْسِ- الذَّاجِسُ وَالذَّاجُوْسُ: اَنْكَلِي كَيْ كَنَارُ پَرِ دُورِ- الذَّحْحَسُ: هَرْجِي كِي كَبْرُو مَقْدَارِ- ذَحَصَّ (ف) ذَحْصًا: الْمَذْحُوْحُ بِرِ جَلِيهِ: اِيْزِيَا رِگُرَا _____ الرُّجْلُ: جَلْدِي كَرَا- ذَحَصَّ (ف) ذَحْصًا وَذُحْصًا: الْحُجَّةُ: بَاغِلِ كَرَا- ذَحَصَّتِ الْحُجَّةُ: بَاغِلِ هُوَا _____ الشَّمْسُ: يُوْهَلَا- ذَحَصَّ (ف) ذَحْصًا: مَذْحُوْحِ كِي طَرَحِ پَاؤُنِ پَنگِنَا _____ رِجْلُهُ: مِجْلَانَا _____ الْمَطْرُ الْبِلَاعِ: مِجْلَانِ كِي جَلْدِ بِنَا رِيَا _____ عَنِ الْأَمْرِ: نَقِيْشِ كَرَا- أَذْحَصَّ: الرَّجُلُ: مِجْلَانَا _____ الْحُجَّةُ: بَاغِلِ كَرَا- إِنْدَحَصَّ: النَّبْزَانُ: بَاغِلِ هُوَا- الذَّحْضُ وَالذَّحْضُ- مِنْ الْأَمْكِنَةِ: مِجْلَانِ كِي جَلْدِ- جِ ذَحَاَضِ- الْمَذْحِصَةُ: مِجْلَانُ دَاغِلِ جَلْدِ- ذَحَقَهُ (ف) ذَحَقًا وَأَذْحَقَهُ: دُورِ كَرَا- دَحَكَرَا- إِنْدَحَقَ: اِيْئِي جَلْدِ سَمْرَا پَرِيَا- الذَّاحِقُ: فَا- يُوْتُوْفُ- مِغْضِبَا كِ- الذَّجِيْقِي: دُورِ- دُورِ هُوَا كِي جَلْدِ- ذَجِيْقِي الْقَوْمِ: قَوْمِ كَا دَحَكَرَا هُوَا- مَنْذَحِقِي- النَّظْنُ: كَشَاهُ بِبِيْتِ دَاغِلِ- ذَحَقْتَهُ: مِجْلَانِ سَمْرَا كَلْمَا- ذَحَلَّ (ف) ذَحَلًا: مِجْلَانِ كَرِ چھيٹَا- دُورِ هُوَا _____ الْبَيْزُو: كَنُوْسِي كَيْ اِيَكِ جَانِبِ مِي كُوهُوا- (_____ وَادْحَلَّ) فِي الذَّحْلِ: كُوهُو مِي دَاغِلِ		
ذَحَلَّ (س) ذَحَلًا: ذُوْهِلِي بِبِيْتِ دَاغِلِ هُوَا- صِفَتِ (ذَحَلِ) ذَاخَلَهُ مَذَاخَلَةً: دُوهُوَا كَرِيَا- فَرِيْبِ كَرَا- الذَّحْلُ وَالذَّحْلُ- كُوهُوَا- گُرْهَا جُو اُو پَرِ سَمْرَا نِگِ اُو رِي چھيٹِي سَمْرَا هُوَا- جِ ذَحَالِ وَادْحَالِ وَادْحَلَّ وَذُحُوْلُ وَذُجْلَانِ- الذَّخَلَةُ: كَنُوَا- الذَّجَلِ- فَرَمِي دَاغِلِ- مَوْتَا بِسْتِ تَدَ ذُوْهِلِي بِبِيْتِ دَاغِلِ- الذَّحَالِ: اِشْتَرَا- الْبِنَرُ (الذَّحُوْلُ وَالذَّخَلَاءُ) اُو پَرِ سَمْرَا نِگِ نِچھِي سَمْرَا كَرِيَا الذَّحُوْلُ- وَهُ كَلْبِي جُو هِرِنِ كَيْ شَكَارِ كَرِنِي كَلِي كَهْرِي كِي جَاآ- جِ ذُوَا جِيْلِ- اُورِ اِس طَرِيقَةُ سَمْرَا كَرِنِي دَاغِلِ كُو (الذَّحَالِ) كَتِي پيں- ذَحَلَّ: اُوْلُ فَوْلِ كَرَا- ذَحَلَمَةً ذَحَلَمَةً: پَهَارُ سَمْرَا اِيَا كَنُوْسِي مِي دَحَلِي رِيَا- ذَحَمَةً (ف) ذَحَمًا: زُورُ سَمْرَا دَحَا كَرِيَا- ذَحَمَ الْمَرْأَةُ: جَمَاعِ كَرَا- الذَّحَمُ: جَزَ- الذَّحُوْمُ: لُوْمَزُو كِي جَاغِلِ- ذَحَمَرُ: الْقَرْبَةُ: مِجْلَانِ مِجْرَا- ذَحَمَسَ: النَّبْلُ: رَاتِ كَا تَارِكِي هُوَا- الذَّحَمَسُ وَالذَّحَمَسُ- سِيَاهُ- بِسْتِ حَتْمِ تَارِكِي- كَمَا جَاآ ه- "لَيْلٌ ذَحَمَسُ" بِسْتِ تَارِكِي رَاتِ- جِ ذَحَا مَسِ- الذَّحَا مَسِ- بِسْتِ زِيَادَةُ كَنُوْمِ كُو مَوْتَا آوِي- بِنَا رُو- الذَّحْمُوْقِي: بُوَا ذُوْلُ دَاغِلِ كَا بُوَا بِبِيْتِ وَآلِ- ذَحَمَلَّ: بِه- زَمِيْنِ پَرِ لُزْهَكَرَا- ذَحِنَ (س) ذَحْنًا: بِسْتِ تَدَ مَوْتَا بُوَا بِبِيْتِ وَآلِ هُوَا- الذَّحْنَةُ: بِلَنَدِ زَمِيْنِ- ذَحَائِدُ حُوُو يَدْحُوِي ذَحُوَا: النَّظْنُ: بُوَا هُوَا		

اندرونی سطح _____ الانسان: نیت مذہب۔
راز: ج ذواجل۔

الدخال: گھوڑے کا بال۔ جوڑوں کا آپس میں
داخل ہونا۔

الدخیل: غیر قوم میں داخل ہونے والا۔ ج
ذخلاء: محلی کلمہ جو عربی زبان میں داخل ہو گیا
ہو۔ کہا جاتا ہے ”ذاع دخیل“ اندرونی بیماری

”هو دخیل فلان“ وہ فلاں کے ہر کام میں
رازدار ہے۔ و دخیل الزوج: نیت مذہب۔
راز۔

الدخيلة: من الشئ: چیز کا اندرونی حصہ۔
ذخيلة العراء: نیت۔ اندرونی خیال۔

المدخل: داخل ہونا۔ داخل ہونے کی جگہ۔
کہا جاتا ہے ”هو حسن المدخل فی أمره“
وہ اپنے امور کا بہترین منتظم ہے۔

المدخل: نفع۔ لیم۔ کین۔ غیر قوم میں داخل
ہونے والا۔

المدخول: وہ شخص جس کی عقل میں فتور
ہو۔ لاغر۔ عیب دار۔ دخلة مدخولة: درخت
خرما جس کے اندر کا حصہ کھوکھلا ہو گیا ہو۔ زجل
(منداجل) ہونا گھٹے ہوئے بدن کا مرد۔

الدخل والدخل: راز دار۔ دخل
الذخيل: ہونا گھٹے ہوئے بدن کا مرد۔

الدخل: عیب۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی کی جانب
منسوب کرتے ہوں اور فی الحقیقت ان میں سے نہ
ہوں۔

ذخلة الرجل: دخلتہ و دخلتہ نیت۔
مذہب۔ راز۔ کہا جاتا ہے ”هو عقیف الذخلة“
وہ پاک نیت ہے۔ الذخلة: راز۔ اسی سے ہے

”قوله شذذ ذخلة امری“ میں نے اس کے سامنے
اپنا راز ظاہر کر دیا۔ الذخلة: مختلف رنگوں کو ملا کر
ایک رنگ بنانا۔

الدخل: بڑے ذیل اور گھٹے بدن والا۔ درخت
کے بڑے گھاس۔ ایک چھوٹا پرندہ۔ ج دخاخیل
ذخل الرجل و دخیلا و دخیلا (نیت راز۔
الذخيل: فا۔ اندر آنے والا۔ اندرونی۔

الذخيلة: مؤنث۔ ذاخلة الارض: زمین کا
نشیبی حصہ _____ الازار: ازار (بند) کی

نشیبی حصہ _____ الازار: ازار (بند) کی

دخصت (ف) دخوصا: الجارية: چربی والی
ہونا۔ صفت (دخوص)

دخصت (ف) دخصا: الصبي او الشيخ:
پانچا نہ کرنا۔

دخل (ن) دخولا و مدخلا: الدار: اندر آنا۔
داخل ہونا _____ پہ: اندر لانا۔ داخل کرنا
_____ علیہ: زیارت کرنا۔ ملاقات کرنا۔

دخيل: فی عقلہ او جسمہ و (دخيل (س)
دخلام: عقل یا جسم میں خرابی لاحق ہونا۔ صفت
(مدخول) علیہ _____ امر فلان: بالقی طور پر
فائدہ ہونا۔ (دخلة) داخل کرنا۔

ذاخلة مذاخلة: العجب: خود پسندی آنا۔
ذاخلة فی أمره: دراندازی کرنا۔ دخل دینا۔
ذاخلة دخالا و مدخلا: داخل کرنا۔

تدخّل: داخل ہونا _____ الشئ: آہست
آہست داخل ہونا۔

تدخاله: گھل مل جانا _____ الشئ: ایک
دوسرے میں داخل ہونا۔ تدخاليت الامور:
مشتبہ و متبہ ہونا۔

ادخل و اندخل: داخل ہونا۔
الدخل: مہ۔ آمدنی۔ مرض۔ عیب۔ قسمت۔
دخّل الرجل: نیت مذہب۔ راز۔

الدخل: عقلی یا جسمانی خرابی۔ مکر۔ خاندانی
عیب۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی کی جانب
منسوب کرتے ہوں اور فی الحقیقت ان میں سے نہ
ہوں۔

ذخلة الرجل: دخلتہ و دخلتہ نیت۔
مذہب۔ راز۔ کہا جاتا ہے ”هو عقیف الذخلة“
وہ پاک نیت ہے۔ الذخلة: راز۔ اسی سے ہے

”قوله شذذ ذخلة امری“ میں نے اس کے سامنے
اپنا راز ظاہر کر دیا۔ الذخلة: مختلف رنگوں کو ملا کر
ایک رنگ بنانا۔

الدخل: بڑے ذیل اور گھٹے بدن والا۔ درخت
کے بڑے گھاس۔ ایک چھوٹا پرندہ۔ ج دخاخیل
ذخل الرجل و دخیلا و دخیلا (نیت راز۔
الذخيل: فا۔ اندر آنے والا۔ اندرونی۔

الذخيلة: مؤنث۔ ذاخلة الارض: زمین کا
نشیبی حصہ _____ الازار: ازار (بند) کی

نشیبی حصہ _____ الازار: ازار (بند) کی

نشیبی حصہ _____ الازار: ازار (بند) کی

اور نیچے کو لگنا۔ اور کہا جاتا ہے ”ذخا المظنر
الخصی عن وجهه الاضی“ بارش کنکریوں کو
بہالے گئی۔

إذخوی الذخواء: پھیلنا۔

ذخی ندخی: دخیا۔ الشئ: پھیلنا۔

تدخی تدخیا: الشئ: پھیلنا۔

إندخی: البطن: کشادہ ہونا۔

الذخية: بندریا۔

الذخية: فوج کا سردار۔ ج دخاء۔

الأذخوی و الإذخوی و الأذخوة و الأذخية:

ریت میں شتر مرغ کے انڈے دینے کی جگہ۔

الدخ و الدخ: دھواں۔

دخدخ الرجل: چھوٹے چھوٹے قدم رکھ
کر تیز چلنا _____ عنقه الشئ: روکنا۔

تدخدخ الرجل: دیکھ کر ہونا۔

دخددر: الفرقط: سونے کا طبع کرنا۔

دخز (ف) و دخز (س) دخزا و دخوزا:

ذیل ہونا۔ حقیر ہونا۔

أذخوة: ذیل کرنا۔

الدخوص: دانا۔ عقل مند ماہر۔

الدخوینص: کرتے کی کٹی۔

دخس (ف) دخسا: الشئ فی الرماد:

چھپا دینا۔ دخس فیہ: داخل ہونا۔

دخس (س) دخسا: الخافو: درم والا ہونا۔

صفت (دخس)

الدخس: جوان ریچھ۔ ہونا گھٹے بدن والا۔

الدخس: جانور کے گھراورم۔

الدخس: ایک بحری جانور کا نام ہے جس کو
سوس کہتے ہیں۔

عدد (دخاس) بہت۔ دغ دخاش: قریب

قریب طاقوں والی زرہ۔

الدخیس: آپس میں الجھی ہوئی گھاس۔ بہت

تعداد۔ کہا جاتا ہے ”هو دخس اللحم“ وہ

پڑگوشت ہے۔

کلا (دیحس) بہت اور الجھی ہوئی گھاس۔

الدواجس و الدخس: دیگ دان کے

پائے۔

دخس (س) دخسا: پڑگوشت ہونا۔

الْمَدْرَارُ - بہت بے والا - کہا جاتا ہے "سَمَاءٌ
مَدْرَارٌ" موسلا دھار برسنے والا بادل - "عَقِينُ
مَدْرَارٌ" بہت آنسو بہانے والی آنکھ -
ذَرَّأَةٌ (ف) ذَرَّأٌ وَذَرَّاءٌ - زور سے دھکا دینا
الشَّيْءُ: پھجانا _____ الْمَسْبُوتُ عَلَيْهِ:
تیزی کے ساتھ آنا - کہا جاتا ہے "ذَرَّأَ الرَّجُلُ
عَلَيْتَنَا" وہ ہمارے اوپر اچانک آگیا - (_____
ذُرُوءًا) الْبَدْرُ: چمکتا _____ النَّازُ: روشن
ہونا -
ذَارَةٌ مَدْرَارَةٌ - ایک دوسرے کو دفع کرنا -
نزی برتنا - مریالی کرنا - فریب دینا -
تَدْرَأُ تَدْرَاءً - الصَّائِدُ: فریب دینے کے لئے
پھینا - وَتَدْرَأُ عَلَيْهِ: روز رستی کرنا -
إِدْرَأُ: الصَّيْدُ وَالصَّيْدُ: گھات لگانے کی جگہ
بنانا -
تَدَارُ تَدَارَةً - الْقَوْمُ: جھگڑے میں بات کو
ایک دوسرے پر ڈالنا -
إِنْدَرَأُ: السَّيْلُ: تیزی کے ساتھ آنا -
الظَّرِيفِيُّ: پھیل جانا _____ فَلَانٌ عَلَيْهِ:
اچانک آجانا -
الذَّزْءُ - مہ - نیزے کی چمڑ وغیرہ کی کچی -
مخالفت - کہا جاتا ہے "فَقَوْمٌ ذَزْءٌ" میں نے
اس کی کچی کو درست کر دیا - و "جَاءَ السَّيْلُ
ذَزْءًا" یعنی سیلاب تیزی سے اچانک طور پر آگیا -
الذَّزْءِيُّ وَالذَّزْءِيُّ: روشن ستارہ -
الذَّرَائِي: مجھول الاسم بڑے ستارے -
الذَّرِيقَةُ: نشانہ ٹھیک کرنے کا گول دائرہ - فکار
کو دھوکہ دینے کیلئے گھات لگانے کی جگہ -
الشَّدْرَاءُ وَالشَّدْرَاءُ: ایسا شخص جو صاحب قوت
و شوکت ہو اور دشمن کو ہٹانے والا ہو -
الْمَدْرَأُ: ہٹانے کا زریعہ -
ذَرَبٌ (س) ذَرَبًا وَذَرْبَةً - ماہر کار نگر ہونا
_____ بِالشَّيْءِ: عادی ہونا - شو قین ہونا -
صفت (ذَرِبٌ وَذَارِبٌ) مؤنث ذَرْبَةٌ وَذَارِبَةٌ
_____ ذَرْبَةً بِالشَّيْءِ وَفِيهِ عَلَيْهِ: عادی بنانا -
تَدْرَبٌ: عادی بننا - ذَرَبُ الْجُنْدِيِّ: ٹھکست
کے وقت مستقل رہنا -

السَّرَاجُ: روشن ہونا _____
السُّوقُ: بازار کا چل پڑنا -
_____ الْعُرُوقُ: خون سے بھرنا -
ذَرَّ (س) ذَرَّاً وَجَهَةً: بیماری کے بعد کھڑ
آنا -
ذَرَّ (س) ذَرَّاً: الفرس: تیز دوڑنا -
أَذَرَ: الْمَغْرُولُ: مضبوط بننا _____ الشَّيْءُ:
حرکت دینا _____ عَلَيْهِ الضَّرْبُ: لگا تار مارنا -
_____ الرَّيْحُ السَّخَابُ: تھمڑے مار کر برسنے
کے قابل بنا دینا - کہا جاتا ہے "أَذَرَ اللَّهُ لَكَ
أَخْلَافَ الرِّزْقِ" اللہ تعالیٰ تمہارے لئے رزق
زیادہ کریں _____ التَّاقَةُ: بہت دودھ والی ہونا -
إِسْتَدْرَأَ: اللَّيْنُ: زیادہ - إِسْتَدْرَأَ: ہمانا
_____ الرَّيْحُ السَّخَابُ: تھمڑے مار کر برسنے
کے قابل بنا دینا -
الذَّر - مہ - دودھ - دودھ کی زیادتی - خون اور کما
جاتا ہے "لِلَّهِ ذَرَّةٌ" اس کی خوبی اللہ ہی کے لئے
ہے - و "لَا ذَرَّةَ ذَرَّةً" خدا کرے کہ وہ خوش حال نہ
ہو -
الذَّر - بڑے موتی - واحد (ذَرَّةٌ) ج
ذُرُودَرَاتٍ -
الذَّار - فا - دودھاری اونٹنی - ج ذُرُودَرٌ وَذُرَّ
وَذَرَّارٌ -
الذَّرَّة - دودھ - دودھ کی زیادتی - دودھ کا بہنا -
خون - کوڑا - ج ذَرَر - کہا جاتا ہے "مَرَّ عَلَيَّ دَرِيْبُهُ"
وہ اپنے ارادہ پر ڈٹا رہا کوئی چیز اس کے لئے مافح
نہیں -
ذَرَرٌ: الظَّرِيفِيُّ: راستہ کار درمیان - ذَرَرٌ الرَّيْحُ:
ہوا چلنے کی سمت - کہا جاتا ہے "هُمَا عَلَيَّ ذَرَرٌ
وَاحِدٌ" ان دونوں کا قصہ ایک ہے -
الذَّرَاةُ: تکلہ -
الكَوْكَبُ (الذَّرِيْبُ): بتثلث الدال: روشن
ستارہ - فَرَسٌ ذَرِيْبٌ: تیز رفتار گھوڑا - ذَرِي
السَّيْفِ: تلوار کی چمک -
الذَّرُوْرُ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی - حَزْبٌ
ذُرُورٌ: خونریز چمک -
الذَّرِيْبُ: مہ - روشن چراغ - تیز رفتار جانور -
الذَّرِيَّةُ: دودھ کی کثرت -

تَدَخَّنَ: دھوئیں کی بو دینا -
الدَّخْنُ: کنگنی - جینا - باجرا -
الدَّخْنُ - مہ - دھواں - کینہ - فساد - عقلی فزور -
دین کی کمزوری - حسب کا عیب - کہا جاتا ہے
"لَسْتُ أَصَالِحُهُ عَلَيَّ دَخْنٌ" میں اس سے مکر
و فساد کی صورت میں صلح نہیں کروں گا -
الدَّخْنَةُ: دھندلا - خوشبو جس سے مکانوں کو
دھولی دیتے ہیں - أَبُو دَخْنَةَ: ایک قسم کا پرندہ -
الدَّخَانُ وَالدَّخَانُ: دھواں جِ الدَّخْنَةُ
و دَوَائِحِنُ وَدَوَائِحِينُ: مولدین تمباکو دسگریٹ
کو کہتے ہیں -
الدَّاخِنَةُ: روشن دان جس سے دھواں نکلے -
جِ دَوَائِحِنُ -
الدَّخْتَانُ: وہ چیز جس پر دھواں چھا جائے -
مؤنث دَخْتَانَةٌ -
الْمَدَّخِنُ: دھوئیں کی جگہ -
الْمِدَّخِنَةُ: عود سوز - انجیلیٹھی - جِ مَدَّخِنُ
الْمَدَّخِنَةُ: دھواں نکلنے کی چٹنی -
الدَّخِي: تاریکی -
لَيْلَةٌ (دَخِيَاءٌ) تاریک رات -
الذَّكْهِيلُ: کوڑا - اس کا لام کلمہ مثل "عند" کے
واو محذوف ہے اور کبھی واو کو الف سے بدل کر
(الذَّذَا) کہا جاتا ہے - کہا جاتا ہے "هَذَا نَافِي دِيْدٍ
وَلَا الذَّذْهِيْبِي" نہ تو میں کھیل کود میں ہوں اور نہ
یہ میرا کام ہے - الذَّد: وقت - کہا جاتا ہے "مَضَى
ذَدْمِنُ الذَّهْرِ" زمانہ کا ایک حصہ گزر گیا -
الذَّدَنُ: کھیل کود -
الذَّدَانُ: بے نفع آدمی - کند تلوار - بہت کانٹے
والی تلوار (ضد) الذَّدِنُ وَالذَّدِيْدَانُ عادت -
الذَّدِيْبُ وَالذَّدِيْبَانُ: تمبھیان - ہراول -
راہبر - جنگلی گدھا -
الذَّدِيْبِيُّونَ: کھیل کود -
ذَرَّ (س) ذَرَّاً: الدَّخْلِيْبُ: دودھ زیادہ ہونا
_____ الدُّنْيَا عَلَيَّ أَهْلِيهَا: پیداوار زیادہ ہونا -
_____ التَّاقَةُ بِالْبَيْتِهَا: بہت دودھ دینا - کہا جاتا
ہے "ذَرَّتْ حُلُوْبُئِنَّةٌ" وہ خوش حال ہو گیا -
النَّبَاتُ: گتھ جانا - (_____ ذَرَّاً وَذُرُورًا)
الْعَرَقُ: بہنا _____ السَّمَاءُ بِالْمَطَرِ: برسا

أَذْرَبٌ بَهِجًا بَهِجًا الْقَوْمُ: در ضمن کے ملک میں داخل ہونا۔
 الذَّرْبُ: گلی کا کشادہ دروازہ۔ بھاگ۔ راستہ۔
 ج ذُرُوبٌ وَدِرَابٌ۔
 الذَّرْبَةُ: سہ۔ لڑائی اور ہر کام میں جرات و دلیری۔ کہا جاتا ہے ”فِي الْعَفْوِ ذَّرْبَةٌ“ معاف کرنا بہت بڑا کام ہے۔
 الذَّرُوبُ وَالذَّرْبُوتُ: مِنَ الْجَمَالِ وَالْفَرَسِ سَدَّهَا هُوَا۔
 الذَّرْبَةُ: لڑائی اور ہر کام میں جرات و دلیری۔
 المَذْرَبُ: سہ۔ تجربہ کار۔ سرد و گرم چشیدہ۔
 مِنَ الْأَيْلِ: سہ ہلایا ہوا گھوڑوں میں چلنے کا عادی اونٹ۔ المَذْرَبُ: شیر۔
 تَذْرِبًا الشَّيْءُ: بڑھکانا۔
 ذُرْبٌ ذُرْبَةٌ: سختی کے بعد نرم ہونا۔
 الذَّرْبُ: ناز سے چلنے والا۔
 ذُرْبٌ: خوف سے بھگانا۔ پیٹھ جھکانا۔
 تَذْرِبُ تَذْرِبًا: آگے بڑھنا۔
 الذَّرْبُ: شیر۔ پاگل کتا۔
 ذُرْبٌ ذُرْبَةٌ: خوف سے خاموش رہنا۔
 ذُرْبٌ ذُرْبَةٌ: دھول بھانا۔
 الذَّرْبَانُ وَالذَّرْبَانُ: دروازہ کا محافظ۔ ج ذَّرْبَانَةٌ: فارسی کلمہ ہے۔
 الذَّرْبَانُ وَالذَّرْبَانُ: ج ذَّرْبَانٌ: جگے یا کھڑے کا سلسلہ۔
 ذَّرْبٌ (ن ض) ذُرُوبٌ وَدِرَابٌ: الشَّيْءُ أَوْ الصَّبِيءُ: چلانا۔ الزَّجْلُ: بیڑھی پر چڑھنا۔
 الْقَوْمُ: ختم ہو جانا۔ مرجانا۔ کہتے ہیں ”هُوَ كَذَّبَ مِنْ ذَّبٍّ وَذَّرَجٌ“ وہ زندوں اور مردوں سے زیادہ جھوٹا ہے۔ الزَّجْلُ: بے اولاد مرنا۔ البِنَاءُ: اوپر تلے سبزلیں بنانا۔
 ذَّرَجًا وَذَّرَجٌ وَأَذْرَجٌ: الْقَوْمُ أَوْ الْكِنَابُ: لپٹنا۔ نہ کرنا۔ وَذَّرَجُ الْبِنَاءُ: بیڑھی بنانا۔ ذَّرَجَةٌ إِلَى كَذَا: آہستہ آہستہ قریب کرنا۔
 ذَّرَجَةُ الْأُمُ: تنگ دل کرنا۔ أَذْرَجَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: داخل کرنا۔
 ذَّرَجٌ (س) ذَّرَجًا: اپنے راستہ پر چلنا۔ مراتب میں ترقی کرنا۔ کلام یا دین میں راہ راست پر قائم

رہنا۔

تَذَّرَجَ إِلَى كَذَا: آہستہ آہستہ آگے بڑھنا۔
 أِنْدَرَجَ الْقَوْمُ: ختم ہو جانا۔ فِي كَذَا: داخل ہونا۔

اسْتَذْرَجَهُ: إِلَى كَذَا: قریب کرنا۔ ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں ترقی دینا۔ زمین پر چلانا۔ قریب دینا۔

الذَّرَجُ: سہ۔ وہ کانڈ جس پر لکھا جائے۔ کہا جاتا ہے ”أَفْذَرْتُهُ فِي ذَّرَجِ الْكِنَابِ“ میں نے اس کو اپنے خط کے ساتھ بھیج دیا۔ فِي الْقِرَاءَةِ: روانی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ وَهُمْ ذَّرَجٌ بِيَدِكَ“ وہ تمہاری ٹھنی میں ہے۔

الذَّرَجُ: چھوٹا ٹھیلایا کنڈیا جس میں عورتیں خوشبو اور اپنا سامان رکھتی ہیں۔ ج أَذْرَجُ وَدِرَابَةٌ۔

الذَّرَجُ: وہ کانڈ جس پر لکھا جائے۔ راستہ۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کا سفیر۔ ج أَذْرَجُ وَدِرَابٌ: کہا جاتا ہے ”رَجَعْتُ أَذْرَجِي“ میں اسی راستہ لوٹ گیا جس سے آیا تھا۔ وَ ذَهَبَ ذَمَّةٌ ذَّرَجٌ أَوْ أَذْرَجُ الرِّيَاحِ: اس کا خون رائیگاں اور قصاص نہیں لیا گیا۔ وَ حَلَبَهُ ذَّرَجُ الصَّبِّ: اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔

الذَّرَجَةُ: ج ذَّرَجٌ: بیڑھی۔ ذَّرَجُ السَّلْمِ: بیڑھی کا پابہ۔ ج ذَّرَجَاتُ: مرتبہ۔ بڑے یا چھوٹے دائرہ کے ۱۶۰ ذَّرَجَاتُ: ایک جز۔
 الذَّرَجُ: نا۔ ثوابِ ذَارَجٌ: ہر جگہ پھیلنے والا غبار۔ کہا جاتا ہے ”صَبَّيْ ذَارَجٌ“ پاؤں پاؤں چلنے لگنے والا پتہ۔ قَبِيلَةُ ذَارَجَةٌ: جاہ و برباد ہونے والا قبیلہ۔

الذَّرَجَةُ: جانور کی ٹانگ ج ذَوَارِجُ۔
 الذَّرُوجُ: مِنَ الرِّيَاحِ: تیز چلنے والی ہوا۔
 الذَّرُوجُ: بڑے بڑے دشوار عاجز کرنے والے امور۔ کہا جاتا ہے ”وَقَعَ فِي الذَّرُوجِ“ وہ بہت دشوار معاملہ میں پھنس گیا۔

الذَّرَاجُ: بہت پھرنے والا۔ جطل خور۔ سی۔
 الذَّرَاجَةُ: سائیکل۔

الذَّرَاجَةُ: محاصرہ کرنے کا ایک آلہ۔ بمعنی ذَّبَابَةٌ (دیکھئے الذَّبَابَةُ)

الذَّرَاجُ: تیز۔ مونس نہ کر دینوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ج ذَّرَانِجٌ: واحد ذَّرَاجَةٌ ہے اس میں ”آ“ وحدت کی ہے تائید کی نہیں۔ نرکو حَقِيقَتَانِ بھی کہتے ہیں۔

المَذْرَجُ: راستہ۔ مسلک۔ اور اسی سے ہے ”إِغْشَى فِي مَذْرَجِ الْحَقِّ“ حق کے راستہ پر چلنا۔ مَذْرَجُ التَّمَلُّ: چھوٹیوں کے چلنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ أَخْفَى مِنْ مَذْرَجِ التَّمَلُّ“ وہ چھوٹیوں کے راستہ سے زیادہ پوشیدہ ہے۔
 المَذْرَجُ: لپٹی ہوئی کتاب یا خط۔ ج مَذَارِجُ۔
 المَذْرَجُ وَالْمَذْرَجَةُ: لپٹی ہوئی کتاب یا خط۔ ج مَذَارِجُ۔

المَذْرَجَةُ: ج مَذَارِجُ: افضل یا اعلیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا الْأَمْرُ مَذْرَجَةٌ لِهَذَا“ یہ اس امر کے لئے ذریعہ ہے۔ راستہ۔ راستہ کا بڑا حصہ۔ کانڈ جس میں کوئی تحریر لکھی جائے یا لپٹی جائے۔ مَذَارِجُ الْأَكْثَمَةِ: بیلہ کے درمیان کے راستے۔ أَرْضٌ مَذْرَجَةٌ: بہت تیز والی زمین۔

الذَّرُوعُ: غلہ کی ایک قسم جو بیلوں کو کھلاتے ہیں۔
 ذَّرَجْلٌ ذَّرَجْلَةٌ: القوس: کمان پر چڑے کا قسم لگانا۔

الذَّرَجْلَةُ: چڑے کا قسم۔
 ذَّرَجَةٌ (ف) ذَّرَجًا: دفع کرنا۔ ہٹانا۔
 ذَّرِحٌ (س) ذَّرَحًا: بوزھا ہونا۔ صفت مذکر مرد مونس (ذَّرِح)

الذَّرْحَابَةُ: پست قدم۔
 ذَّرْدٌ (س) ذَّرْدًا: غھیناک ہونا۔ صفت (ذَّرْد)

بے راتوں کا ہونا۔ صفت (أَذْرَد) مونس ذَّرْدَاءُ۔
 ج ذَّرْدٌ۔
 أَذْرَدَةٌ: دانتوں کا گرانہ۔
 الذَّرْدِيُّ: تجھٹ۔

ذَّرْدَبٌ: الرَّجُلُ: خوفزدہ آدمی کی مانند بچھے دیکھتے ہوئے بھگانا۔

إِمْرَأَةٌ (ذَّرْدَبٌ) رات میں آمد و رفت رکھنے والی عورت۔
 الذَّرْدَبِيْسُ: مصیبت۔ بڑھا۔ بہت بڑھایا۔

محبت کا منتر۔
 الیدرزح۔ حریص۔ بہت بڑھا۔ ج ذرأح۔
 الیدرزحہ: وہ عورت جس کا طول عرض برابر ہو۔
 ذرذر۔ الشبغ أو الصبی البسرة: منہ میں پھلانا۔
 الذرذار۔ ذھول کی آواز۔ ایک بڑا درخت جس کے پھول زرد اور پتے خاردار ہوتے ہیں۔
 الذرذر سچے کے دانت نکلنے کی جگہ۔ ج ذرادر۔
 الذرذور۔ بھنور۔
 الذرذوق۔ بچہ۔ شراب کا پیمانہ۔ ج ذرذاق۔
 الذرذاق۔ چھوٹی دکان۔ کوئی ہوئی ہمار زمین۔ الیدردم۔ رات میں آمدورفت رکھنے والی عورت۔
 ذرذ (س) ذرذآ۔ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں پر قادر ہونا۔
 ذرذ (ن) ذرذآ۔ الثوب: کپڑا باریک سینا۔ الخیاط الذرذور: درزی کا سیون کو باریک سینا۔
 الذرذم۔ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں۔ دو کپڑوں کے درمیان کا سیون۔ ج ذرذوز۔ بنات الذرذوز: جو اور اس کے اہلے۔
 الذرذی۔ سلائی کا پیشہ کرنے والا۔ ابو محمد عبد اللہ الدرزی۔ جن کی جانب ایک قوم منسوب ہے جو لبنان اور حوران میں پائی جاتی ہے۔ ج ذرذہ اور ذرذوز بھی کہتے ہیں۔ واحد ذرذی۔ اور عوام حمہ وال سے ذرذی کہتے ہیں۔
 (أولاد ذرذرة) جولاہے۔ درزی: نیچے درجہ کے لوگ۔ أم ذرذرة: دنیا کی کنیت۔
 ذرذ (ن) ذرذشا۔ الرسم: ثنا۔ صفت (ذارس) ج ذرذارس۔ الشی: نشان۔ ثنا۔ (ذرذشا) الرسم: نقش۔ ثنا۔ الثوب: کپڑا بوسیدہ ہونا۔ الثوب: بوسیدہ کرنا۔ الثاقفة: سدھانا۔ ذرذشا و ذرذسة: لکھنا یا علم، پڑھنا۔ متوجہ ہو کے یاد کرنا۔ ذرذس الجاریة: سماع کرنا۔ (ذرذشا و ذرذسة) الجنظة:

گیوں کو گاہنا۔ (ذرذست المیزاة) درشا و ذرذشا حائضہ ہونا۔
 ذرذسة و اذرذسة: الکتاب: پڑھنا۔ ذرذس البعیر: سدھانا۔
 ذرذسه مذارسة و ذرذشا۔ باہم پڑھنا۔ الذرذوب: ارتکاب کرنا۔
 ذرذارس۔ الظلثة الکتاب: باہم پڑھنا اور کہا جاتا ہے "ذرذارس الکتاب و اذرذسة" اس نے کتاب پڑھی۔
 انذرس۔ الرسم: ثنا۔ الخبیر: تاپید ہونا۔
 الذرذس۔ سبق۔ مخفی راستہ۔ ج ذرذوس۔ الیدرس و الذرذس و الیدرس: پرانا کپڑا اونٹ کی دم۔ ج اذراس و ذرذسان۔ ابو اذراس: کنیت فرج۔ ابو اذریس: کنیت ذکر۔
 الذرذسة۔ ریاضت۔ ورزش۔
 الذرذس۔ حائضہ عورت۔
 الذرذس۔ بہت پڑھنے والا۔
 المذرذسة۔ طلبہ کے تعلیم حاصل کرنے کی جگہ۔ اور کہا جاتا ہے "ہذہ مذرذسة النعم" یہ چوپائے کا راستہ ہے۔
 المذرذس۔ پڑھنے کی کتاب۔ پڑھنے کی جگہ۔
 المذرذس۔ توراہ پڑھنے کی جگہ۔
 المذرذوس۔ شہ۔ پرانا کپڑا۔ طریق مذرذوس: چلتا ہوا راستہ۔ فراش مذرذوس: بچھا ہوا بھوننا۔
 مجنون۔ پاگل۔
 الیدرذاس و الیدرذاس۔ شیر۔ الیدرذاس: بڑے سر کا تار۔ ولیر مرد۔
 ذرذست (س) ذرذشا۔ الثاقفة: بولچاہے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دانت والی ہونا۔ صفت (ذرذشاء)
 الذرذس و الیدرذس۔ چہا، ملی، خرگوش، سیسی وغیرہ کا بچہ۔ ج اذراس و ذرذسة و ذرذسان و ذرذوس و اذرذس۔
 الذرذس و الذرذوس۔ تیز رفتار اونٹنی۔
 أم اذراس۔ جنگلی چوہا۔ بلا مصیبت۔
 کہا جاتا ہے "وقفوا فی أم اذراس" وہ لوگ ہلاکت میں پڑ گئے۔

ابو اذراس۔ بیوقوف۔
 ذرذ (س) ذرذعا۔ القز و غنیزہ: سیاہ سر اور سفید جسم والا ہونا۔ صفت (اذرذع) مؤنث ذرذعاء ذرذع۔
 ذرذ (ف) ذرذعا۔ الشفاء: بکری کے سر کی جانب سے کھال اتارنا۔ الرقبة أو اليد: گردن یا ہاتھ کا جوڑا کھاڑنا۔
 ذرذع۔ الزرع: کھیت کا کچھ حصہ کھایا جاتا ہے۔ الماء: پانی کے قریب کی سب چیز کھائی جاتا۔
 ذرذعة۔ زہ پھانا۔ المرأة: قیس پھانا۔ ہ: گلا گھونٹنا۔ الشی: ظاہر کرنا۔ الریحل: چلنے میں آگے بڑھنا۔
 اذرذع۔ الشهر: آدمی سے زیادہ گزرا اور تدرذع و اذرذع: زہ پھانا۔ اذرذع و اذرذع اللیل: رات کی تاریکی میں داخل ہونا۔ اذرذع: کسی چیز میں کسی چیز کو داخل کرنا۔ اذرذع الماء: پانی کے قریب کی سب چیز کھائی جاتا۔
 اذرذع۔ فی السیر: آگے بڑھنا۔ اذرذع یفعل کذا: وہ ایسا کرنے لگا۔ العظم: ہڈی کا گوشت سے جدا ہونا۔ البطن: پیٹ بھرنا۔ القمر من السحاب: چاند کا بادل سے نکلنا۔
 الیدرذع۔ زہ۔ مؤنث ہے کبھی مذکر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ج ذرذوع و اذرذع و ذرذاع۔ تغیر ذرذوع۔ ذرذع المیزاة: عورت کی قمیص یا وہ قمیص جس کو وہ گھر میں پہنتی ہے۔ (مذکر ج اذرذاع۔ اور درع اس چھوٹے سے کپڑے کو بھی کہتے ہیں جس کو چھوٹی لڑکی گھر میں پہنتی ہے۔
 الذرذع۔ من الغضب: تازہ گھاس۔
 الذرذع و الذرذع۔ قمری مینے کی سولویں، ستروہیں، اٹھارہویں راتیں۔ اس لئے کہ ان راتوں کی ابتداء میں تاریکی اور بقیہ میں چاندنی رہتی ہے۔
 اللذراع۔ فا۔ زہ پھینے والا۔
 الذرذعة۔ درخت خرما کی چھال کی مانند۔ ایک چیز جس کو درخت خرما کے ارد گرد لگا دیا جاتا ہے۔ ج ذرذع۔

ہوگا اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔
 الذرکۃ۔ درجہ۔ لیکن درک اور درجہ میں
 فرق ہے۔ درک اترنے کی حالت میں اور درجہ
 چڑھنے کی حالت میں۔ ج ذرکات۔ کہا جاتا ہے۔
 ”الذکر ذرکات والناز ذرکات“
 الإذرک۔ قوت مد رکہ۔
 ذرک اسم فعل۔ بمعنی اذرک۔
 الذرک متصل۔ کہا جاتا ہے ”سیر ذرک“
 متصل سیر۔
 الذرک مرغوب چیز کو پالنے والا۔
 الذرکۃ بھگائی ہوئی۔
 الإستیزرک۔ یہ کلام سابق سے جو ہم پیدا
 ہو اس کو دور کرنا۔
 رجل مذرکۃ۔ تیز اور اک کرنے والا۔ تاء
 مبالغہ کے لیے ہے۔
 مذرک الشریع۔ وہ نصوص جن سے ثبوت
 احکام ہو۔
 المذرکات والمذاریک۔ حواس۔
 المذاریک۔ علم عروض کی اصطلاح میں ایک
 بحر کا نام۔
 الذرکۃ اختلاط۔ بھیرا۔ انہوہ۔
 الذرکۃ ایک قسم کا باجر (مولدہ)
 درم (اس) دزما۔ العظموں کوشت سے بڑی کا
 پوشیدہ ہونا۔ صفت (درم) و دارم و دریم
 و اذرم۔ الساقی ہموار ہونا۔
 الاستناب۔ گرنا۔ گرنے کے قریب ہونا۔
 التبعین۔ بے دانتوں والا ہونا۔
 درم (ض) دزما و دزما و دزما و دزما۔
 انثفد و الازنب و نحوہما۔ چھوٹے
 چھوٹے قدموں سے جلدی چلنا۔ اور ایسا ہی
 ”درم الشیخ و الصبی“ بھی بولا جاتا ہے۔
 درم۔ اظفارہ۔ ناخن کاٹنے کے بعد ہموار کرنا۔
 اذرم۔ الصبی۔ دودھ کے دانت ہلنا۔ صفت
 (اذرم) مؤنث ذرماء۔ الذرماء۔ خرگوش۔
 سرخ تپوں والی ایک گھاس۔
 دارم مذرکۃ۔ گرانی کے ساتھ ساتھ جلدی
 چلنا۔
 الذرمۃ۔ درم کا مؤنث۔ خرگوش۔

الذرع۔ پانی لانے والا اونٹ۔
 الذرفع۔ بڑول۔
 المذرع والمذرع۔ لوگوں سے کھانا چاہنے
 والا اور ان کو کال دینے والا۔
 ذرقل ذرقلۃ۔ الرجل۔ تیز گزرتا۔ ناچنا۔ ناز
 سے چلنا۔
 الذرقل۔ ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔
 الذرقم۔ بیکار۔ وصال کا نام۔
 ذرک المظو۔ بے درپے برسا۔
 اذرک الشی۔ اپنے وقت پر پہنچنا۔
 الشمر۔ پھل کا پکنا۔ الولد۔ لڑکے کا بالغ
 ہونا۔ الشی۔ لاحق ہونا۔
 الصنائلۃ۔ سکننا۔ بنارہ۔ خون کا بدلہ لینا
 الشی یتصرہ۔ دیکھنا۔
 ذرکۃ مذرکۃ و ذرکۃ۔ لاحق ہونا۔
 الشی۔ ایک کو دوسرے کے پیچھے کرنا۔
 الطغن۔ پیانے نیزہ مارنا۔
 تذارک۔ القوم۔ آخر کا اول سے آملنا اور اس
 میں اذراک بولا جاتا ہے۔ الخطأ
 بالصواب۔ غلطی کی اصلاح کرنا۔ غلطی کے بعد
 درست کرنا۔ مافات۔ تلافی کرنا۔ درست
 کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تذارک اللہ بزحمۃ“ یعنی
 اللہ کی رحمت اس کو لاحق ہو۔ ”تذارک القوم“
 اس نے قوم کی تلافی کی۔
 اذرک۔ ملنا۔ لاحق ہونا۔
 استندرک۔ الشی بالشی۔ کسی چیز سے کسی
 چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”استندرک النجاة بالقوار“ اس نے بھاگ کر
 نجات حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ مافات۔
 تلافی کرنا۔ الخطأ بالصواب۔ غلطی کی
 اصلاح کرنا۔ علیہ القول۔ غلطی نکالنا۔
 الذرک و الذرک۔ لاحق ہونا۔ حصول حاجت۔
 کسی چیز کی انتہائی گہرائی۔ کہا جاتا ہے ”بلغ
 الغراض ذرک البحر“ غوطہ خور سمندر کی
 انتہائی گہرائی میں پہنچ گیا۔ اور کہا جاتا ہے ”فوش
 ذرک الظرفیذۃ“ بھگائے ہوئے جانور کو پالنے والا
 گھوڑا۔ نادان۔ اور اسی سے ہے ”مالحقتک من
 ذرک فعلی خلاصہ“ جو نادان تمہارے اوپر

الذرعاء۔ مؤنث اذرع۔
 اللیالی: وہ رات جس میں صبح کے وقت چاند
 نکلتا ہے۔ ج ذرع۔
 الذرعۃ۔ زرہ کو چھوٹے والا نیزہ۔ ج ذراعی۔
 الذراعۃ۔ ج ذراویع و (المذرعۃ) ج
 مذارع۔ جبہ۔ کوٹ۔ والمذرعۃ عند
 اليهود: اجارہ یورو کے پسنے کا کٹاں کا ایک کپڑا۔
 ماء (مذرع و مذرع) پانی جس کے قریب
 قریب کی چراگاہ چلی گئی ہو۔ زوضۃ مذرعۃ:
 باغ جس کے ارد گرد کو کھایا گیا ہو۔
 المذرع۔ مفر۔ ایک قسم کا جانور۔
 المذرعۃ۔ فولاد سے ڈھکا ہوا جنگی جہاز۔
 الذرعۃ۔ اچھی عمارت والا۔
 اذرعش۔ الرجل من مزضہ۔ درست ہونا۔
 اذرعش۔ الرجل فی القتال۔ صف سے
 نکل کر آگے بڑھنا۔
 الذرعۃ۔ تالاق بد زبان۔
 الذرف۔ پناہ۔ سایہ۔ جانب۔
 الذرفۃ۔ عند العمامۃ۔ دروازہ کا پٹ۔ فصیح لفظ
 (الصفیق) ہے۔
 الذرفس۔ بوسے جسم کا اونٹ۔ مؤنث مرد۔ بڑا
 نشان۔ ریشمی کپڑا۔
 ذرقل و اذرنفق۔ فی سیرہ۔ تیز چلنا۔
 ذرق (ن) ذرقا۔ فی المشی۔ تیز چلنا۔
 ذرقۃ۔ نرم کرنا۔
 الذرق۔ سخت خواہ کوئی چیز ہو۔
 الذرقاء۔ بادل۔
 الذرقۃ۔ چڑے کی بی ہوئی ڈھال جس میں
 لکڑی اور پھانہ ہو۔ ج ذرق۔
 الذراق۔ ایک میوہ دار درخت۔ ایک قسم کا
 میوہ۔ واحد ذرقۃ۔ شراب۔ (الذراق و الذریق)
 والذریقۃ۔ تریاق۔
 الذراقین۔ زرد آلو۔ شفتالو۔
 الذروق۔ بغیر ٹوٹی کے دودھتوں والا لوہا۔ ج
 ذواق (عرب) الذروق: عابد زاہد لوگوں کی
 ایک قسم کی ٹوٹی۔ اور اسی کی نسبت سے پسنے
 والے ”الذریقین“ کہلاتے ہیں۔
 ذرق۔ حتیٰ سے تیز بھاگنا۔

سایپ کی پھرتی۔ اور امثال سے ہے "العزق دَسَّاسٌ" یعنی باپ کی عادتیں بیٹوں تک پہنچتی ہیں۔

الدَسَّاسُوس۔ جاسوس۔

الدَسَّاسِيس۔ وہ شخص جس کو خبر لانے کیلئے بھیجا جائے۔ وہ چیز جو مٹی میں دبا دی جائے۔ گرم راکھ میں بھونٹی ہوئی چیز۔ ج دَسَّس۔ الدَسَّس: ریا کار لوگ۔

الدَسَّش۔ زخم کی گہرائی ناپنے کا آلہ۔

الدَسَّنت۔ حیلہ و فریب۔ مکان کا صدر حصہ۔ مجلس۔ تکیہ۔ کافد۔ لباس۔ بیابان۔ ج (دَسَّنت) اور شطرنج کے کھیلنے میں بولنے ہیں "الدَسَّنتُ" یعنی "یعنی میں غالب رہا۔" "الدَسَّنتُ عَلَيَّ" میں مغلوب ہو گیا۔ اور عوام دست کا کلمہ دیگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

الدَسَّسَجَة۔ دستہ۔ مٹھا۔ شیشہ کا بڑا برتن۔ ج دَسَّاسِيج۔

الدَسَّشُور۔ مجموعہ قوانین۔ اجازت۔ وزیر۔ وہ کتاب جس میں آئین و قوانین ضبط کئے جائیں۔ وہ رجسٹر جس میں فوجیوں کے نام اور ان کے وظائف لکھے جائیں۔ ج دَسَّاسِيفِر۔

الدَسَّسْتَان۔ فی اصطلاح اصحاب الموسیقی۔ بربط کا کار۔ ج دَسَّاسِيتَان۔

إِنْدَسَّسِج۔ منہ کے ٹل گرنے۔

الدَسَّسِيج۔ مگزی کی مانند ایک کیڑے کا نام۔

دَسَّسُوْرَة (ن) دَسَّسُوْر۔ نیزہ مارنا۔ جانا۔ دفع کرنا۔

السَّفِيْنَة۔ رشتی سے کشتی کے تختوں کو جوڑنا۔

الدَسَّسَارُ فِي الشَّيْءِ۔ زور سے گھسانا

الشَّيْءِ۔ سبج لگانا۔ الجَوَارِيَة۔ جماع کرنا۔

الدَسَّار۔ کھجور کے ریشہ کی مانند ایک چیز جس سے کشتی کے تختوں کو جوڑتے ہیں۔ سبج دَسَّسُوْرَة۔

الدَسَّسُوْرَاء۔ کشتی۔ ج دَسَّسُوْر۔

الدَسَّسُوْر۔ گیوں میں کا ایک تلخ قسم کا دانہ۔ شیر موٹا اوت۔ و دَسَّسُوْر۔ نعمان بن منذر شاہ عراق کی ایک فوج کا نام۔

بیتوں والی ہونا۔

إِذْرَهَمٌ۔ بڑی عمروال ہونا۔ بڑھاپے کی وجہ سے دانوں کا گرنے۔ صفت (مُدْرَهَمٌ) النَّبْصُرُ: نگاہ کا مدھم ہونا۔

الدِزْهَمُ و الدِزْهَمَةُ و الدِزْهَام۔ چاندی کا سکہ۔ ج دِزْهَام (یونانی کلمہ ہے) مولدین کے نزدیک رراہم کا اطلاق مطلقاً تقویر ہوتا ہے۔

المُدْرَهَم۔ بست درانہم والا۔

الدِزْوَيش۔ راہب۔ عابد۔ زاہد۔ لفظ فارسی ہے جس کے معنی فقیر کے ہیں۔

دِزْئِي (ض) دِزْئَا و دِزْئَا و دِزْئِي و دِزْئِي و دِزْئَانَا و دِزْئَانَا و دِزْئَانِي و دِزْئَانِي و دِزْئَانِي و دِزْئَانِي بالشَّيْءِ: حیلہ سے جانا۔ (آخری مصدر) زیادہ مستعمل ہے۔

دِزْئِي (ض) دِزْئَا و تَدِزْئِي و اَدِزْئِي۔ الصَّيْدُ: دھوکا دینا۔ دِزْئِي الرَّاْسِ: دِزْئِي سے سر کو کھجانا (دیکھئے دِزْئِي)

دِزْئِي مُدْزَاةٌ۔ ہ باہم نرمی کرنا۔ فریب دینا۔

أَدِزْئِي۔ الرَّجُلُ بِكَذَا: جلتانا۔ آگاہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَدْرَاكُ وَمَا يُدْرِيكَ" یعنی تم نہیں جانتے۔

الجِذْرِي و المِجْدَزَة و المِجْدَرِيَة۔ کھٹی۔ باریک سینگ جس سے عورتیں بالوں کو درست کرتی ہیں۔ ج مَدَارِي و مَدَارِي۔

دِزْزَة (ن) دِزْزَا۔ ہٹانا۔ دفع کرنا۔

دَس (ن) دَسَا و دِيسِيَسِي۔ الشَّيْءُ تَحْتَ الثَّرَابِ و فِيهِ: دھنسانا۔ چھپانا۔ گارنا۔ دَسَ عَلَيَّ: حیلہ و کمر کرنا۔ سازش کرنا۔

دَسَّس تَدْبِيْسًا۔ دھنسانا۔ چھپانا۔ تشدید مبالغہ کے لیے ہے اور بجائے دَسَّس کے دَسَّس کہا جاتا ہے جیسے بجائے تَطَّيْن کے تَطَّيْن۔

تَدَسَّس۔ بہ الی اَعْدَائِهِ: حیلہ و کمر کرنا۔ سازش کرنا۔

إِنْدَسَّس۔ دھنسانا۔ رٹن ہونا۔

الدَسَّسِيَة۔ خفیہ سازش و عداوت۔

الدَسَّاس و الدَسَّاسَة۔ سرخ رنگ کا زہریلا سائپ جو مٹی میں چھپا رہتا ہے۔ الدَسَّاسَة:

دِزْغُ دِرْمَة: چمکدار یا نرم زہرہ۔

الدِّزَام و الدِّزَامَة۔ سخی۔ خرگوش۔ الدِّزَام: پست قدر۔ در قمار۔ مَوْتَسَدْرَامَة۔

الدِّزِيم۔ پُرگوشٹ۔ نازک اندام خوبصورت لڑکا۔

دِزْغُ (مُدْرَهَمَة) چمک دار نرم زہرہ

المِجْدَزَام۔ میل کچیل میں لٹسٹرا ہوا۔ ج

مَدَارِيْم۔

دِزْهَس۔ خاموش رہنا۔ الشَّيْءِ: چھپانا۔

دِزْهَمَص دِزْهَمَصَة۔ خاکساری کرنا۔ دُخْتِي کرنا۔

الدِّزْمَقِي و الدِّزْمَك۔ سفید آٹا۔ یہ۔

دِزْهَمَك دِزْهَمَا۔ البِنَاءُ۔ سوار و چمکدار

بٹانا۔

الدِّزْمَك۔ نرم مٹی۔

الدِّزْمُوْك عَلِيْجِي۔

دِزْوَ دِزْئَا۔ الثَّوْبُ: مٹیا ہونا۔

صفت (دِزْوَ و مِزْوَ) دِزْوَ دِزْئِي و مِزْوَ دِزْئِي۔

أَدِزْئِي۔ الثَّوْبُ: مٹیا کرنا۔ الثَّوْبُ:

مٹیا ہونا۔ أَدِزْئِي الصَّابِيَة: پانی خشک گھاس

چرنا۔

الدِّزْوَ۔ میل کچیل۔ ج أَدِزْئِي۔ أُمُّ دِزْوَ: دینا۔

الدِّزْوَ۔ لومڑی۔

الدِّزْوَين۔ پرانی خشک گھاس جس کو جانور نہ

کھائیں۔ پرانا کپڑا۔ أُمُّ دِزْوَين: بظ زہ زمین۔

الدِّزْوَاس۔ شیر۔

الدِّزْوَوف۔ بڑے ذیل ڈول کا اوت۔

الدِّزْوَوك و الدِّزْوَينِک عَلِيْجِي۔ تالین۔ ج

دِزْوَينِک۔

دِزْوَ (ف) دِزْوَها۔ عَلَيَّهِم: ناگہ آنا

لہم و عَنَّهُم: مدافعت کرنا۔ دِزْوَ عَلَيَّ كَذَا: زیادہ کرنا۔

دَارِهَات۔ الدھر: زمانے کے حوادث۔

التَّدْرَة۔ دفع۔ مدافعت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ دُوْرُ تَدْرَة" وہ دشمنوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے والا ہے۔

المِجْدَزَة۔ سردار۔ قوم کا نمائندہ۔ لیڈر۔ ج

مَدَارِي۔

دِزْهَمَس۔ الخَبَّازِي: درہم کی مانند گول

الدَّوسِرُ والدَّوسِرِيُّ والدَّوَابِرِيُّ
والدَّوسِرَانِيُّ. موٹا۔ مضبوط۔

دَسَع (ف) دَسَعًا منہ بھر کے تے کرنا
_____ بِقِيَّتِهِ: تے کرنا _____ الْإِنَاءَ: بھرنا

العِزْقُ: رگ کا گوشت میں چھپنا
الرَّجُلُ: بہت دینا _____ الشَّقِيَّ: ہٹانا دفع کرنا
_____ التَّبَعِيَّ جَوْنَهُ: بگاڑ کرنا۔

الدَّيْسِمَةُ: بہت بخشش۔ طبیعت۔ بڑا پیالہ۔
وسیع دسترخوان۔ قوت۔ ج ذصانع۔

بَيِّعُوا (ذ) دَسَعًا بہت بگاڑ کرنے والا اونٹ۔
المُدْسَعُ: حلق کی نالی۔

دَسِقٌ (س) دَسَقًا: الحَوْضُ: پر ہونا۔ لبالب
ہونا۔

أَدَسَقَ: الْإِنَاءَ: بھرنا۔

الدَّيْسِقُ: بھرا ہوا حوض۔ چاندی کا خونچہ۔
صاف چاندی کا زیور۔ لبا راستہ۔ بڑھا مرد۔
خوبصورتی۔ نور۔ سفیدی۔ سراب کی سفیدی اور
اس کی چمک۔

الدَّوْسُكُ: شیر۔

الدَّوْسُكُورَةُ: بڑا گاؤں۔ گرجا _____ ہموار
زمین۔ ایسا مکان جس میں شراب اور کھیل کود کی
چیزیں ہوں۔ محل کی مانند عمارت جس کے
ارد گرد مکانات ہوں اور ان میں شاطر لوگ جمع
ہوتے ہوں۔ ج ذصاکنز۔

دَسَمَ (ن ض) دَسَمًا: الفَاوْزَةُ: ڈاٹ لگانا

_____ النَّبَابَ: بند کرنا _____ الْجَزْحَ: زخم
میں بقی رکھنا _____ الْمَنْظَرُ الْأَرْضَ: کچھ کچھ تر
کرنا _____ التَّبَعِيَّ: قنران وغیرہ ملنا (دیکھئے
قنران) _____ الْأَثَرُ: مٹا _____ الْمَرْأَةَ:
جماع کرنا۔

دَسِيمٌ (س) دَسَمًا وَدُسْمَةً: چلی والا ہونا۔

سفت (دَسِمٌ وَادَسَمٌ) مَوْتٌ (دَسِيمَةٌ وَ
دَسَمَاءٌ) ج دَسِمٌ وَدُسْمٌ (دَسِيمٌ وَدَسَمٌ)
الشَّقِيَّ: میلنا ہونا۔ نیلا ہونا۔ وَدَسَمَ الرَّجُلُ:
چکنائٹ کی چمک لگانا۔

دَسَمَ الشَّقِيَّ: چربی ڈالنا۔ کالا کرنا _____
الْمَنْظَرُ الْأَرْضَ: تر کرنا۔

أَدَسَمَ: الفَاوْزَةُ: ڈاٹ لگانا _____

الدَّسَمُ: کنارہ۔ کسی چیز کی انتہا۔ کہا جاتا ہے "أَنَا
عَلَى دَسَمِ الْأَمْرِ" میں کام کے خاتمہ پر ہوں۔

الدَّسَمُ: گوشت یا چربی کی چکنائی۔ چربی کا میل۔
الدَّسْمَةُ: خاکستری (_____ وَالْمَسَامُ) ڈاٹ۔

کاک۔ کہا جاتا ہے "مَاهُوَ الْأَدْسَمَةُ" یعنی اس
میں نفع نہیں۔

الدَّيْسَمُ: رچھ یا اس کا پتہ۔ لومڑی یا اس کا پتہ۔
گھاس۔ تاریکی۔ سیاہی۔ کام کاسا تھی۔ مہربان۔
الدَّيْسَمَةُ: ذرہ۔

دَسَائِدُ سُوْدَسُوًّا وَدَسِيٌّ يَدْسِيٌّ دَسِيًّا: کم
ہونا _____ الرَّجُلُ: پوشیدہ ہونا۔

دَسِيٌّ: الرَّجُلُ: بگاڑنا۔ گمراہ کرنا _____
نَفْسَهُ: گمنا کرنا۔

دَشُّ (ن) دَشًّا: دَشِيْشَةٌ (ایک قسم کا کھانا) تیار کرنا
_____ الْحَبَّ: قلدہ کو چکنا۔

الدَّشِيْشُ: گیہوں کی مانند ایک قلدہ جس کو موٹا
موٹا بیسا جاتا ہے۔

الدَّشِيْشَةُ: ایک قسم کا کھانا جس کا جزاء عظیم کوٹا
ہوا گیہوں ہے۔

الدَّوْشِقُ: بڑا مکان۔ موٹا اونٹ۔

الدَّوْشُكُ: چھوٹا۔

دَشَنُ (ن) دَشْنًا: الشَّقِيَّ: دینا۔

دَشْنُ: القُوْبُ: پہلی مرتبہ پھینا۔

العُغْبَةُ: برکت دینے کے لیے سب سے پہلی
مرتبہ نماز پڑھنا۔

تَدَشَّنَ: الشَّقِيَّ: لینا۔

الدَّاشِنُ: فا۔ الدَّاشِنُ مِنَ الشِّيَابِ: نیا کپڑا جو
ابھی استعمال نہ کیا گیا ہو _____ مِنَ الدَّوْرِ: نیا
مکان جس میں ابھی کسی نے سکونت نہ کی ہو۔

دَشَانُ (ن) دَشُوًّا: لڑائی میں گھس پڑنا۔

دَصُّ (ن) دَصًّا: رعایت آداب کے ساتھ
خدمت کرنا۔

دَصَّدُضٌ: آنا کرنے کیلئے چھانی میں ہاتھ مارنا۔

دَصَقَ (ن) دَصَقًا: الرَّجْحَاجُ: توڑنا۔

دَصُّ (ن) دَصًّا: رعایت آداب کے ساتھ
خدمت کرنا۔

دَكَّةٌ وَهَكَارَةٌ: _____

دَعَا (ن) دَعَاً: سختی سے دھمکانا۔ دھکے دینا۔
أَدَعَ: الرَّجُلُ: چھوٹے چھوٹے بال بچے والا
ہونا۔

الدَّعَاعُ: چھوٹے چھوٹے بال بچے۔
الدَّعَاعُ: کھجور کے متفرق درخت۔ ایک جنگلی
درخت کے دانے۔ پروں والی سیاہ چوٹیاں۔
واحد دَعَاعَةٌ۔

دَعَبَةٌ (ف) دَعَبًا وَدَعَابَةً: دفع کرنا۔ مزاح
کرنا۔ خوش طبعی کرنا۔ (_____ دَعَبًا) الْمَرْأَةُ:
بھول کرنا۔

دَاعِبَةٌ مُدَاعِبَةٌ: کھیل کود کرنا۔ خوش طبعی
کرنا۔ ہنسی مذاق کرنا۔

تَدَاعَبَ: القُوْبُ: باہم ہنسی مذاق کرنا۔
تَدَعَبَ: عَلَيْهِ: ناز کرنا۔

الدَّعَبُ وَالدَّاعِبُ: کھیل کود ہنسی مذاق
کرنے والا۔

الدَّعَابُ وَالدَّعَابَةُ: بہت ہنسی مذاق کرنے
والا۔ دَعَابَةٌ مِثْلُ "تَا" مبالغہ کی ہے "تائیبہ کی
نہیں۔

الدَّعَابَةُ: ہنسی مذاق۔ سیاہ چوٹی۔ بیوقوفی۔
الأَدْعَبُ: بیوقوف۔ مَوْتٌ دَعْبَاءٌ: ج
دُعْبُ۔

الدَّعْبُ: بہت کھیلنے والا۔ اچھا لگانے والا۔
نازک بدن نوجوان۔

الدَّعْبُوْبُ: سیاہ چوٹی۔ ایک قسم کا سیاہ دانہ جو
کھایا جاتا ہے۔ راستہ جس پر آمد و رفت زیادہ ہو۔
پست قدم مرد جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔ شادمان۔
مخٹ۔ بیوقوف۔ لبا گھوڑا۔ لَيْلَةُ دَعْبُوْبٍ: بڑی
رات یا بہت کالی رات۔

الدَّعْبُوْتُ وَالدَّعْبُوْسُ: بیوقوف۔ کم عقل۔
الدَّعْبِيلُ: مینڈک کے انڈے (_____)
والدَّعْبَلَةُ: مضبوط اونٹنی۔

دَعَتَ (ف) دَعْتًا: سختی سے ہٹانا۔ دھکے دینا۔

دَعَتَ (ف) دَعْتًا: پاؤں یا ہاتھ وغیرہ سے مٹی
باریک کرنا۔ دَعَتَ بِهِ الْأَرْضَ: _____ پنگ
دینا۔

دُعَتٌ: رو دنگے کھڑے ہونا۔ سُتِي لَاتِحٌ: ہونا۔
أَدَعَتَ: فِي الشَّقِيَّ: بڑائی میں مبالغہ کرنا۔

الذَّعْجَلُ: کسی قوم پر لوٹ ڈالنے کیلئے گھوڑوں کو لے آنا۔	بُرَائِي - فَنَسَق - فَنَاد -	الشَّيْءُ بِلَايٍ رَكْنًا - چوری کرنا۔
ذَعَجٌ (س) ذَعَقًا - الظَّرِيفِيُّ: بہت آمدورفت والا ہوتا۔	الذَّعَاظَةُ وَالدَّعَاظَةُ - بد خلقی۔	إِنْدَعَجْتُ - الشَّيْءُ: روندنا۔
الذَّعْفَةُ - حملہ و جج۔	الدَّاعِرُ - فَا - شَرِيرٌ - خَبِيثٌ - ج ذُعَارٌ مَوْثٌ -	تَدَعَجْتُ - ضُدُّوْهُمُ: کینہ رکھنا۔
الذَّعْفَةُ - اُدْنُوْنَ كَاكُلٍ - بارش کی بوجھاڑ۔	ذَاعِرَةٌ - الذَّائِرَةُ: درخت خرما جو گامناہ دیا جا سکے۔ ج مَدَاعِيْرٌ -	الدَّعْثُ - مہ - مرض کی ابتداء۔
الْمُدْعَقُ - پانی پینے کی جگہ۔	الدُّعْرُ - ککڑی کھانے والا کیرا۔ واحد (دُعْرَةٌ) زَجْلٌ (دُعْرٌ وَدُعْرَةٌ) - ساتھیوں کے ساتھ خیانت کرنے والا۔	الدَّعْثُ - کینہ - پانی کا بقیہ۔ ج اَدْعَاثٌ وَدِعَاثٌ -
خَيْبِلٌ (مَدَاعِيْقٌ) لڑائی میں لوگوں کو کچلنے والے گھوڑے۔	الدُّعْرِيَّةُ - بخنی۔	ذَعَجْرٌ - الخَوْضُ: ڈھانا۔ الارضُ: روندنا۔
ذَعَكٌ (ف) ذَعَكًا - القَوْبُ: ملائم بنانا۔ الخَصْمُ: نرم کرنا۔ الجِلْدُ: ملنا۔ الشَّيْءُ فِي التَّرَابِ: مٹی میں لوٹنا۔ کہا جاتا ہے "ذَعَكَةُ بِالْقَوْلِ" اس نے اس کو سخت و ست کم کر تکلیف پہنچائی۔	الدُّعْرُومُ - بد صورت۔ پست قدم۔	الدَّخْفُ - بیوقوف۔
ذَعَكٌ (س) ذَعَكًا - بیوقوف ہونا۔ صفت (ذَاعِكٌ وَذَاعِكَةٌ) مَوْثٌ (ذَاعِكَةٌ) کہا جاتا ہے "فَلَايٌ أَحْمَقُ ذَاعِكَةٌ" فلاں بیوقوف ہے۔ ذَاعِكَةٌ مُدَاعِكَةٌ - سخت جھگڑا کرنا۔ ٹال منول کرنا۔	ذَعْرٌ (ف) ذَعْرًا - ہٹانا۔ دَفْعٌ کرنا۔ الجَارِيَةُ: بملع کرنا۔	الدُّعْفُورُ - مِنَ الخَوْضِ: حوض جس کے چاروں طرف شکستہ ہو گیا ہو۔ گڑھا۔ مِنَ التَّعَمِّمِ: بہت چپاے۔
تَدَاعَكَ - القَوْمُ: باہم سخت جھگڑنا۔ تَدَاعَكُوا فِي الخَوْبِ: لڑائی میں باہم زور آزمانی کرنا۔	ذَعَسَ (ف) ذَعَسًا - الشَّيْءُ: روندنا۔ الوَعَاءُ: بھرتا۔ فَلَانًا: دفع کرنا۔ (وَدَعَسَهُ) بِالرُّمْحِ: نیزہ مارنا۔ المُرَاةُ: ذیل و رسوا کرنا۔ دَاعَسَهُ مُدَاعَسَةً - باہم نیزہ بازی کرنا۔ الذُّعْسُ - مہ - نشان۔ ظَرِيفٌ ذَعَسٌ: بہت نشانوں والا راستہ۔	سِيَاهٌ اور بڑی ہونا۔
الذَّعِكُ - سخت جھگڑاؤ۔	الْمُدْعَسُ - امید کی جگہ۔	أَذْعَجَ - بڑی اور بہت سیاہ آنکھوں والا۔
الذَّعِكُ - گنام۔ کزور۔ ایک قسم کا پرندہ۔	الْمُدْعَسُ وَالمُدْعَسُ - بہت آمدورفت کا راستہ۔ نیزہ۔ ج مَدَاعِسُ وَ مَدَاعِيسُ -	مَوْثٌ ذَعَجَاءٌ - ج ذُعْجٌ - الذَّعْجَاءُ: قمری مہینہ کی اٹھائیسویں رات۔ اُنْبِيسُوْنَ كَوْمَسَارٍ اور تیسویں کو فلتہ کہتے ہیں۔ جنوں۔
الذَّعِكَةُ - راستہ کا بڑا حصہ۔	ذَعَصَةٌ (ف) ذَعَصًا وَ اذْعَصَةٌ - قتل کرنا۔	الذُّعْجَةُ - آنکھ کی سیاہی۔ مع وسعت کے لَبِيلٌ اذْعَجٌ - تاریک رات۔
الْمُدْعِكُ وَ المَدَاعِكُ - سخت دشمن۔	ذَاعَصَهُ - عرت میں مقابلہ کرنا۔	الْمُدْعُوْجُ - ججنوں۔ پاگل۔
ذَعَلَةٌ (ش) ذَعَلًا - دھوکا دینا۔	تَدَعَصُ - اللحم: گل سڑکر ریزہ ریزہ ہونا۔	ذَعْدُغٌ وَ ذَعْدَةٌ وَ ذَعْدَاعًا - آہستہ آہستہ دوڑنا۔ الخَفْفَةُ: بھرتا۔ المِكْبِيَانُ:
ذَاعَلَهُ - باہم فریب دینا۔	الذُّعْصُ - ج ذُعْصَةٌ وَ اذْعَاصُ وَ (الذُّعْصَةُ) ج ذُعْصُ (ش) - ریت کا تودہ۔	زیادہ سامنے کے لیے ملانا۔
الذَّاعِلُ - فَا - بھاگنے والا۔	الْمُدَاعِصُ - تیزے۔	تَدَعْدَعٌ - بڑھے کی طرح چلنا۔ الشَّيْءُ:
ذَعْلَجٌ ذَعْلَجَةٌ - اللَّيْلُ: تاریک ہونا۔	الذُّعْصَاءُ: نرم زمین جہاں بہت دوسری جگہوں کے گرمی زیادہ ہو۔	بھرتا۔
الشَّيْءُ: کسی چیز کے رنگوں کا مخلوط ہونا۔	ذَعَطٌ (ف) ذَعَطًا - المرأةُ: جماع کرنا۔	ذَعْدُغٌ وَ ذَعْدَاعًا - کلمہ ہے جو گرنے والے کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں کھڑے ہو جاؤ۔
الزَّجْلُ: بار بار آنا جانا۔ الشَّيْءُ: لڑھکانا۔	ذَعَقٌ (ف) ذَعَقًا - الظَّرِيفِيُّ: بہت روندنا۔ صفت مفعول (ذَعَقٌ وَ ذَعِقٌ وَ مَدْعُوقٌ)	الذَّعْدَاعُ - مہ۔ پست قدم۔
الذَّعْلَجُ - بھری ہوئی گون۔ باہم لپٹی ہوئی بات۔ خوبصورت تازک بدن جوان۔ تاریکی۔ بھیڑیا۔ گدھا۔ اوٹنی جو ہانکنے سے نہ چلے۔ آنے جانے والے کا نشان قدم۔	الغَاظَةُ: چاروں طرف لوٹ ڈالنا۔ المَاءُ: جاری کرنا۔ الزَّجْلُ: فوراً مار ڈالنا۔	ذَعَوٌ (س) ذَعْوًا - العَوْدُ: دھواں دینا اور نہ سلگنا۔ بوسیدہ ہونا۔ صفت (ذَعْوٌ) - الزَّنْدُ: آگ نہ دینا۔ صفت (أَذْعَوٌ)
ذَعَمٌ (ف) ذَعَمًا - الشَّيْءُ: سارا دینا۔ ٹیک لگانا۔ مہ۔ مدورنا۔ قوی کرنا۔	وَأَذْعَقِي - الخَيْبِلُ: اڑ لگانا۔ عَلِيْهِمْ	ذَعَوٌ (ف) وَ ذَعْوٌ (س) ذَعَاظَةُ - الزَّجْلُ: بدکار ہونا۔
		تَدَعَعُوْ - وَجْهُهُ: چہرہ کا بری طرح سے داغ دار ہونا۔ الزَّجْلُ: شمر ہونا۔ خمیشت ہونا۔
		الذُّعْرُ وَ الذُّعْرَةُ وَ الذَّعَاظَةُ وَ البِغَاظَةُ -

دَعْدَغٌ دَعْدَغَةٌ. فَلَانَا بِكَلِمَةٍ: طعن و تشنیع کرنا۔
 الدَعْدَغَةُ: پھپھیسی منگتو کرنا۔ چھپانا۔
 استبراء کرنا۔ گدگدی کرنا۔ عوام گدگدی کے لیے ”ذُكْرُوكَ وَالزُّكْرُوكَةَ“ بولتے ہیں۔
 المدْعَغُغُ: حسب نسب میں عیب دار۔
 دَعْرَةٌ (ف) دَعْرًا: دفع کرنا۔ ہٹانا۔ دَعْرَتُ الْمَرْأَةِ حَلَقُ الصَّبِيِّ: انگلی سے دانا۔
 الْأُمُّ إِنَّهَا: آسودگی سے کم دودھ پلانا۔ وَغَرَّ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: ملانا۔
 فِي النَّبِيَةِ: داخل ہونا۔ عَلَيْهِ: اچانک آنا۔
 دَعْرَسٌ (دَعْرًا) الزُّجُلُ: بدخلق و کینہ ہونا۔ صفت (داخلی)
 دَعْرَسٌ (دَعْرًا) دَعْرًا: دَعْرًا: لوگوں پر اچانک پہنچ جانا۔
 الدَعْرُ: پہنچ جانا۔ عَلَيْهِ: اچانک آنا۔
 الدَاعِزُ: زبیل۔ حقیر خبیث۔ مفید۔
 الدَعْرَةُ: کسی چیز کو اچک کر لے لینا۔
 المدْعَزَةُ: گھسانے کی جنگ۔
 دَعَشٌ (ف) دَعَشًا: دَعَشًا: تاریکی میں داخل ہونا۔ دَعَشٌ عَلَيْهِم: اچانک آنا۔
 دَاعَشُهُ: بھیڑ کرنا۔ حَوْلَ الْمَاءِ: پیاس کی وجہ سے پانی کے گرد منڈلانا۔ الْمَاءِ: جلدی پینا۔ فِي الشَّيْءِ: کسی چیز کو حرص کی وجہ سے کسی سے کمر سے طلب کرنا۔
 ظَلَمَةُ اللَّيْلِ: رات کی تاریکی میں بغیر کسی سستی کے چل پڑنا۔
 تَدَاعَشَ الْقَوْمُ (وَدَعُوشًا): آپس میں گتھ جانا۔
 الدَعَشُ وَالِدَعِشَةُ: تاریکی۔
 دَغِصٌ (س) دَغِصًا: خوراک یا غصہ سے بھرنا۔
 دَاعِصٌ مَدَاعِصَةً: فی الْعَمَلِ: جلدی کرنا۔
 أَدَغِصُهُ: غصہ سے بھر دینا۔
 المَوْتُ: فوراً موت کا آنا۔
 الدَاعِصَةُ: گتھنے کی چینی۔ عوام اس کو صابونہ الرُّكْبَةُ کہتے ہیں۔ گٹھا ہوا گوشت۔ رقیق پانی ج

القَوْمُ عَلَيْهِ: دشمنی میں متفق ہونا۔
 ادْعَى ادْعَاءً: لدْعُوِيهِ: جواب دینا۔
 ادْعَى الشَّيْءُ: حق یا باطل کا دعویٰ کرنا۔
 یہ: اپنی طرف نسبت کرنا۔ عَلَيْهِ: مقدمہ کرنا۔ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ: باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب ہونا۔ الشَّيْءُ: تینا کرنا۔ ادْعَى فِي الْحَزْبِ: حریف کے سامنے اپنا نام و نسب پیش کرنا۔
 اسْتَدْعَاهُ اسْتِدْعَاءً: پکارنا۔ الشَّيْءُ: طلب کرنا۔
 المدْعَاءُ: دعا کا مصدر۔ ج ادْعِيَةً۔
 الدَعْوَةُ: پکار۔ قسم۔ اور کہا جاتا ہے ”هُوَ مِثْلِي دَعْوَةُ الرَّجُلِ“ یعنی وہ مجھ سے قریب ہے۔ اور یہ مانند (هُوَ مِثْلِي) وَمِنْهُ السُّهْمُ وَمِنْهُ الْكَلْبُ کے ہے کہ اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ ”وَلَهُمْ الدَعْوَةُ عَلَى غَيْرِهِمْ“ دعا میں ان سے ابتداء ہے۔ وَكُنَّا فِي دَعْوَةِ فَلَانٍ اِم فِلاں کی سمائی میں تھے۔
 () وَالدَّعَاوَةُ الدَّعَاوَةُ: ادْعَاءُ کے اسم ہیں۔
 الدَعْوِيُّ: مد۔ مقدمہ۔ دعویٰ۔ ن الدَعَاوِي وَالدَّعَاوِي۔
 الدَعَاءُ: بہت دعا کرنے والا۔
 الدَّعَاءَةُ: انگشت شمارت۔
 الأَدْعِيَةُ: الأَدْعُوَةُ: جیتاں بیٹی۔
 الدَّعِيَّةُ: لے پالک۔ وہ شخص جس کے نسب میں شبہ ہو۔ غیر باپ یا غیر قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا۔ ج ادْعِيَاءُ۔
 الدَّاعِي: فا۔ لوگوں کو اپنے دین و مذہب کی طرف بلانے والا۔ ج دَعَاةٌ: مؤنث دَاعِيَةٌ ج دَاعِيَاتٌ وَدَوَاعٍ () وَالدَّاعِيَةُ: سبب۔ ج الدَّوَاعِي: داعی اللبَن: دودھ کا وہ حصہ جو تھن میں چھوڑ دیا جائے تاکہ بقید دودھ آسانی سے دوبا جاسکے۔ وَدَوَاعِي الصَّدْرِ: فگر و نم۔ وَدَوَاعِي الدَّهْرِ: زمانہ کی گردشیں۔
 المدْعَاءَةُ: کھانے کی دعوت۔ سبب۔
 دَعَتُ (ف) دَعْتًا: گلا گھونٹ کر مار ڈالنا۔
 الدَّعْفُ: بیوقوف۔

ادْعَمَ: ٹیک لینا۔
 تَدَاعَمَ: الأَمْرُ فَلَانًا: بھوم ہونا۔
 الدِّعْمَةُ: ج دَعْمٌ وَ (الدِّعَامُ) ج دَعْمٌ وَ (الدِّعَامَةُ) ج دَعَائِمٌ: ستون۔ کھمبہ۔ کڑی کاستون جو چھپر کیلے لگا دیا جائے۔ الدِّعْمَتَانِ وَالدِّعَامَتَانِ: چرخی کے دونوں طرف کے ڈنڈے دِعَامَةُ الْقَوْمِ: رکیں قوم۔
 الدَّعْمِيُّ: بڑھی۔ کوئی چیز جس میں مضبوط سارا لگا ہوا ہو۔ راستہ کا برا حصہ۔
 فَرَسٌ (ادْعَمٌ وَدَعْمِيٌّ) سینہ میں سفیدی والا گھوڑا۔
 المدْعَمُ: جائے پناہ۔
 دَعْمَصُ: المَاءُ: بہت سیاہ کیڑوں والا ہونا۔
 الدَّعْمُوصُ: پانی کا سیاہ کیڑا جو تالابوں میں پانی کم ہو جانے پر ظاہر ہوتے ہیں اور عوام اس کو (البُلْعُطُ) کہتے ہیں۔ ج دَعَامِصٌ وَدَعَامِصٌ۔
 دَعْنٌ (ف) دَعْنًا: شوخ و بیباک ہونا۔
 الدَّعْنُ: شوخ و بیباک۔ ج دَعْنَةٌ۔
 الدَّعْنُ: بد خو بد نذا۔
 الدَّعْنُ: گھجور کے پتے جن کو رشتی سے بن کر اس پر گھجور پھیلاتے ہیں۔
 دَعَا (ن) دُعَاءً وَدَعْوِيٌّ: ہ: پکارنا۔
 رَغِبْتُ كَرْتًا: مد طلب کرنا۔ ه إِلَى الْأَمْرِ: کسی کام کی طرف لے جانا۔ یہ: حاضر ہونے کو کہنا۔ دَعَاةٌ فَلَانًا وَفَلَانِي: نام رکھنا۔
 المَيْتُ: بین کرنا () ه: دَعْوَةٌ وَمَدْعَاءَةٌ: دعوت کھانے کیلئے بلانا () دَعَاءَةٌ لَهُ: دعا کرنا۔ عَلَيْهِ: بد دعا کرنا۔
 إِلَيْهِ: کسی چیز کی طرف بلانا۔
 دَاعَاةٌ مَدَاعَاةٌ: جھگڑا کرنا۔ باہم پہیلی کتنا۔
 الحَائِطُ: بگڑنا۔
 ادْعَاءُ ادْعَاءً: غیر باپ کی طرف منسوب کرنا۔
 تَدَعَّتْ تَدْعِيًا: النَّاحِيَةُ: نوحہ کرنے میں آواز کو بلند کرنا۔
 تَدَاعَى: العَدُوُّ: متوجہ ہونا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو بلانا۔ تَدَاعَا الشَّيْءُ: دعویٰ کرنا۔ تَدَاعَبَ الحَيْضَانُ: فلکت دویران ہونا۔

(الذغف) ایک قسم کے باجہ کا نام۔ ج ذغوف۔
الذغفة ہرچ کا پہلو۔ ذغفنا القنبل: دھول کے دونوں طرف کے چڑے۔ پورا (آخر معنی میں کلمہ مولدہ ہے۔ اس کے لیے فصیح لفظ الشگان ہے)
الذغفة۔ دشمن کی طرف مارچ کرنے والی فوج۔ لوگوں کی جماعت جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتی رہے۔
الذغاف۔ دغ بجانے والا۔ دغ بنانے والا۔ اقرب الموارد میں بحوالہ لسان العرب ہے کہ دغاف مالک دغ کو مدقیف بنانے والے کو اور مدقیف دغ بجانے والے کو کہتے ہیں۔
الذغوف۔ بین الظہیر: کسی چیز پر ٹوٹ پڑنے وقت زمین سے قریب ہونے والا پرندہ۔
ذغفین یذغفان ذغوفاً و ذغوفاً یذغفون ذغافاً۔
مِن التیزد: گرم ہونا۔ گرمی محسوس کرنا۔
ذغافاً: گرم کرنا۔
الذغاف: گرم کپڑا پہنانا۔ بہت دینا۔ گرم کرنا
الذغرف: فوراً مار ڈالنا۔ القوم: جمع کرنا۔
تذغافاً واذغافاً وامتذغافاً: گرم کپڑا پہنانا۔ گرم ہونا۔
الذغاف: سخت گرمی۔ ج اذغاف۔ اونٹوں کی پیداوار اور جو اس سے نفع حاصل ہو۔
عید ذغاف الحانط: دیواری کو اوتھ۔ کہا جاتا ہے "أقعد فی ذغاف الحانط" وہ دیواری کو اوتھ میں بٹھایا گیا۔ گرم کپڑے۔ گرمی حاصل کرنے کا سامان۔ تم کہتے ہو "معا علیہ دغف" اس پر گرمی حاصل کرنے کا کوئی سامان نہیں۔
الذغافہ: کندھے کا سینہ کی طرف جھکانا۔
الذغاف: گرمی حاصل کرنے کا سامان۔ (کپڑا وغیرہ)
الذغفین الذغیف: گرمی حاصل کرنے والا۔ گرم کپڑے پہننے والا۔ مؤنث ذغیفۃ و ذغیفۃ۔ الذغیفۃ مین الاراضی: گرم زمین۔
الذغافئ: ہمارے آخری بارش۔
الذغقان: گرمی حاصل کرنے والا۔ مؤنث

سے صرفیوں کی اصطلاح ادغام (ایک حرف دوسرے حرف میں شامل کرنا) ہے۔
ادغام۔ الفروس (ادعیمائما) بقیہ جسم سے منہ کا زیادہ سیاهی مائل ہونا۔ صفت (اذغم)
الذغم والذغمۃ گھوڑے کا رنگ جس کا منہ پائی جسم سے زیادہ سیاهی مائل ہو۔
الاذغم: کالی ناک والا۔ ناک میں بولنے والا۔ ج ذغم۔
الذغام۔ حلق کارور۔
ذغمۃ ذغمۃ۔ عیب لگانا۔ الشئی: ملانا۔
الزوجل: بد خلق ہونا۔
الذغمی والذغمی: برے بھلے طے جلے اخلاق والا۔ الزوجل (ذغمون) مرد بد خو۔
الذغامر: قوم کے گھنیا درجہ کے لوگ۔
الذغمور۔ پوشیدہ۔
ذغمش۔ فی المشئی: تیز چلنا۔
الذغمور۔ بد خو۔
ذغن (ن) اذغننا۔ الیوم: بابل والا ہونا۔
الذغنة۔ گھناؤپ بادل۔
الذغناس۔ ایک قسم کا پرندہ جو چیزیا کے مشابہ ہوتا ہے۔
الذغوة والذغیة۔ بڑی عادت۔ ج ذغوات و ذغیات۔
ذغ (ض) ذغاً و ذغیفاً۔ بہت چلنا۔ لہ الامز: تیار ہونا۔ ممکن ہونا۔ الطائیر: پر پڑ پھڑانا۔
ذغ (ض) ذغاً۔ الشئی: جڑ سے اکھیرنا۔
ذغف و ذغف۔ جلدی کرنا۔ ذغف الجریح و ذغفہ و ذغف علیہ: پوری طرح سے فوراً مار ڈالنا۔ و ذغف الزوجل: دغ بجانا۔
اذغ اذغافاً۔ الطائیر: پر پڑ پھڑانا۔ اذغف علیہ الامز: پڑے در پڑے آنا۔
(ذغاف) القوم: ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہونا۔
امتذغف۔ الطائیر: زمین کے قریب اڑنا۔
الامز: درست ہونا۔ پورا ہونا۔
الزوجل بالقومسی: اترے سے موٹنا۔
الذغ۔ ہر چیز کا پہلو۔ کہا جاتا ہے "زغاف اللہ بذات الذغ" اللہ اس کو نمونیا میں مبتلا کرے۔

ذواغص۔
الذغضان۔ غصبتاک۔
ذغغ (ف) ذغغاً۔ الشئی: سختی سے پکڑنا۔
ذغغہم الحزأ: گرمی کا زیادہ ہونا۔
ابو الذغغاء۔ بیوقوف۔
الذغفر۔ موٹا شیر۔
الذغغصۃ۔ موٹائی۔ گوشت کی زیادتی۔
ذغغق ذغغقۃ۔ الماء: بہت گرانا۔
المطر: سخت برسا۔ عیش (ذغغق) آسودہ زندگی۔
الذغغل۔ ہاتھی یا بھیرے کا بچہ۔ بہت سے پر۔
عیش ذغغلی: آسودہ زندگی۔ عام ذغغلی: سرسبز سال۔ فرامی کا سال۔
ذغل (ف) ذغلاً۔ فینہ: متم کی طرح داخل ہونا۔
اذغل۔ الزوجل: درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر چھپ جانا۔ الازض: گنجان درختوں والی ہونا۔ بہ: خیانت کر کے اچانک مار ڈالنا۔ چغل خوری کرنا۔ الشئی: تباہ کن چیز ملادینا۔
الذغل۔ ج اذغال و ذغال و (الذغینلہ) درختوں کا جھنڈ۔ فسادو تباہی۔ خوف و ہلاکت کی جگہ۔
مکان (ذغل) گنجان درختوں والی جگہ۔ پوشیدہ۔
الذغالۃ۔ باطنی کینہ۔ کسی کے عیوب و خیانت تلاش کرنے والے لوگ۔
الذغاول۔ مصیبتیں (مع ہے بغیر واحد کے)
الصدغل۔ وادی کا درمیانی حصہ۔ ج مداعل۔
ذغمہم و ذغمہم (ف س) ذغمنا و ذغمنا۔ الحزأ و التیزد: گرمی یا سردی کا پڑنا۔
ذغم انفہ: توڑنا۔ ذغم الاناء: ڈھانپنا۔
اذغم۔ اللہ فلاناً: سیاہ رو کرنا۔ ذیل کرنا۔
اذغمہم الحزأ و البزڈ: گرمی یا سردی کا پڑنا۔
الفروس الیجام: لگام لگانا۔ اذغمۃ الشئی: ممکن کرنا۔ اذغم الزوجل: لقمہ کو بغیر چبانے ہوئے لگانا۔ (و اذغم) الشئی فی الشئی: ایک چیز کو دوسری میں داخل کرنا۔ اسی

ذَفَّأَى - الأَذْفَاءُ: وہ شخص جس کا کندھا سینہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔ مؤنث ذفائی۔ الأَذْفَاءُ: مرد خیمہ نشین۔

أَرْضٌ مَذْفَاةٌ (مذفاة) گرم زمین۔

إِبِلٌ مَذْفِيئَةٌ وَمَذْفَاةٌ وَمَذْفِيئَةٌ وَمَذْفَاةٌ بہت اون اور چربی والا اونٹ۔

الذَّفْعُ: رجسہ کالی۔ ج ذفایر۔

ذَفْدَفَ: جلدی کرنا۔ الطائِرُ: زمین سے قریب اڑنا۔ الذَّفْوْفُ: جلدی جلدی رفت جانا۔

ذَفْرَةٌ (ذ) اذفوا۔ سینہ میں مار کر ہٹانا۔

ذَفْرٌ (س) اذفوا۔ ذفوا۔ ذیل ہونا۔

الذَّفْعُ: کبڑے پڑنا۔ الشَّيْءُ: بدبودار ہونا۔ صفت (ذفیر و اذفیر) مؤنث۔ ذَفْرَةٌ وَذَفْرَاءٌ: کھینچنے ذفواء: لشکر جس سے لوہے کے زنگ کی بو آئے۔

أَذْفَرُ: الرجلُ: تیز کندہ بغل ہونا۔

الذَّفْرَمُ: بدبو۔

ذَفَارٌ: مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَنْسَرِ بِرُوزْنِ قَطَامٍ: دنیا۔ لوٹنی (یہ کلمہ لوٹنی کے لیے گالی کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ اور اکثر نداء کے موقع پر آتا ہے) اُمُّ ذَفَارٍ وَأُمُّ ذَفْرٍ: دنیا۔ مصیبت۔

إِذْفَسَ إِذْفَسَامًا: الرجلُ: بغیر بیماری کے چہرہ کھلا پڑنا۔

ذَفَضَ (ض) ذَفَضًا: کھلے کھلے کرنا۔

ذَفَطَسَ: الرجلُ: اپنا مال ضائع کرنا۔

ذَفَعَهُ (ف) ذَفَعًا وَذَفَاعًا وَمَذْفَعًا: ہٹانا۔ دور کرنا۔ ذَفَعَهُ فِي كَثَدًا: براصل کرنا۔

إِلَيْهِ الشَّيْءُ: ادا کرنا۔ الْقَوْلُ: دلیل سے باطل کرنا۔ هَ إِلَى كَثَدًا: مجبور کرنا۔ عَنَهُ الْأَدَى: بچانا۔ محفوظ کرنا۔

عَنِ الْمَوْضِعِ: کوچ کرنا۔ جھوڑنا۔ إِلَيْهِ: بچنا۔ کہا جاتا ہے "ظَرِيقٌ يَذْفَعُ إِلَى مَكَانٍ كَثَدًا" راست جو فلاں جگہ تک پہنچتا ہے۔

ذَفَعَ: إِلَى الْمَكَانِ: بچنا۔

ذَافَعَهُ مَذَافَعَةً وَذَفَاعًا: مزاحمت کرنا۔ عَنَهُ: حمایت کرنا۔ مدد کرنا۔ عَنَهُ الْأَدَى:

ہٹانا۔ دور کرنا۔ ذَافَعَهُ عَنْ حَقِيْقِهِ: مال مثل کرنا۔

تَذَفَعَ: السَّيْلُ: زور سے بہنا۔

إِنْدَفَعَ: السَّيْلُ: زور سے بہنا۔ الفَرَسُ فِي سَبِيْرِهِ: تیز دوڑنا۔ الرجلُ فِي الْحَدِيْثِ: بات چیت میں مشغول ہونا۔ اِنْدَفَعَ يَقُوْلُ: کہنے لگنا۔ اِنْدَفَعَ الرَّجُلُ: ہٹنا۔

تَذَفَعَ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو ہٹانا۔ تَذَفَعُوا الشَّيْءُ: ہر ایک کا دوسرے کے ذمہ ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "صَبِيْفٌ يَتَذَفَعُهُ الْحَيُّ" مسلمان جس کو قبیلہ کے لوگ ایک دوسرے کے ذمہ ڈالتے ہیں۔

اِسْتَدْفَعَ: اللّٰهُ الشَّرَّ: شکر کو ہٹانے کی دعا کرنا۔

الدَّفْعَةُ: دفعہ کا اسم مرہ۔

الدَّفْعَةُ: بوجھار۔ برتن یا ٹھک سے جتنا ایک مرتبہ گرے۔ ج دفع و ذفعات۔

الدَّوْفِعُ: شیبہ زمینیں جہاں سیلاب کا پانی جمع ہو جائے۔

الذَّفْوَعُ: بہت ہٹانے والا۔ مِنْ الدَّوَابِّ: ہلات مارنے والا۔

الذَّفَاعُ: بہت دفع کرنے والا۔

الذَّفَاعُ: موج یا سیلاب کا زور۔ بہت لوگ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فِي ذَفَاعٍ مِنَ النَّاسِ" وہ بہت لوگوں میں آیا۔

المدْفَعُ: پانی پینے کی جگہ۔ ج مدافع۔

المدْفَعُ: ہٹانے کا اوزار۔ توپ۔ ج مدافع۔

المدْفَعُ: بہت دفع کرنے والا۔

المدْفَعُ: ہر جگہ سے دھتکارا ہوا فقیر۔

ذَفَقَ (ض) ن) ذَفَقًا: المَاءُ: زور سے گراتا۔ اللّٰهُ زُوْحَهُ: موت دینا۔ الكُوْرُ: گرا کر خالی کر دینا۔

ذَفَقَ (ن) ذَفَقًا وَذَفُوْقًا: المَاءُ: گراتا۔ اَلْتَّهْوُ: بھر کر بہنا۔ جمہور کے نزدیک اس کا استعمال صرف متحدری ہی کی صورت میں ہوتا ہے۔

ذَفَقَ: ذَفَقَ كَالْمَاءِ: کہا جاتا ہے "ذَفَقَتْ كَفَّاهُ الْعُقَاةُ" یعنی اس کے دونوں ہاتھوں نے بہت زیادہ بخشش کی۔

أَذْفَقَ: الكُوْرُ: گرا کر خالی کر دینا۔

تَذَفَّقَ وَاسْتَدْفَقَ: المَاءُ: گراتا۔

الدَّابَّةُ: تیز دوڑنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَتَذَفَّقُ فِي

الْبَاطِلِ" فلاں باطل میں سبقت کرتا ہے۔

اِنْدَفَقَ وَاسْتَدْفَقَ: المَاءُ: گراتا۔

الدَّفْعَةُ: ایک دفعہ۔ یکبارگی۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ وَادْفَعًا" وہ سب یکبارگی آگئے۔

السَّيْلُ ذَفَاقٌ: بہت زیادہ سیلاب جو وادی کے دونوں کناروں کو بھر دے۔

الأَذْفَقُ: تیزھا۔ فکر یا بڑھاپے کی وجہ سے خیمہ کر۔ سبب اذفق: تیزھا۔ مؤنث ذفقاء۔

الدَّفْعِيُّ: تیز حال۔ کہا جاتا ہے "مَشِيٌّ الدَّفْعِيُّ: وہ تیزھا چلا۔ () وَالذَّفِيقَةُ: تیز رفتار اونٹنی یا گھوڑا۔

الدَّفْلُ: قطران (دیکھئے قطران) زفت (ایک دروا کا نام) کثیر۔

الدَّفْلِيُّ: کثیر۔ ایک جماعت کے نزدیک الف الحاق کا ہے اس لیے اس پر تخمین آتی ہے اور دوسروں کے نزدیک تاسیف کا اس لیے تخمین نہیں آتی۔

ذَفَقَ (ض) ذَفَقًا: المَيْتُ: گاڑنا۔ دفن کرنا۔

المَحْدِيْثُ: چھپانا۔ الإِبِلُ: تیز دوڑنا۔

تَذَفَقَ وَانْدَفَقَ: چھپانا۔ الإِبِلُ: تیز دوڑنا۔

إِدْفَقَ: العَبْدُ: آقا کے خوف سے بھاگنا۔

صفت (ذفون)۔ الشَّيْءُ: چھپانا۔

تَذَافَقَ: الْقَوْمُ: پیام چھپانا۔

ذَافِقٌ: الْأَمْرُ: کسی معاملہ کا اندرونی حصہ۔

الذَّفَنُ: مہ۔ دفن کیا ہوا۔ ج اذقان۔ مدفون زمین۔ ج ذفن۔ رجلُ ذفن: گناہ و بے قدر مرد۔

ذَاءٌ (ذفن و ذفون) پوشیدہ بیماری جس کے ظاہر ہونے سے خرابی بڑھ جائے۔

الذَّفِيئَةُ: گاڑا ہوا۔ گاڑا ہوا خزانہ۔ ج ذفائین۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَبِيْرُ الذَّفَائِنَ" فلاں بڑا عالم ہے۔

الذَّفِيْنُ: دفن کیا ہوا۔ چھپا ہوا۔ ج ذفن و ذفناء و اذقان: حوض۔ رَکِيئَةُ ذَفِيْنٌ: دفن شدہ کنواں۔ اِمْرَأَةٌ ذَفِيْنٌ: پوشیدہ عورت۔ ج ذفنی۔ ذَاءٌ ذَفِيْنٌ: پوشیدہ بیماری جس کے ظاہر

ڈھرنے سے بھی زیادہ لمبے ہو اور گھنگو روئی قسم کی کرتے ہو۔

الذقل جسم کی اتوانی۔

الذقلو الذقلو والذقلو ذلیلی تلی بکری حج ذقال وذقائل۔

ذقمة (ن) ذقمتا اچانک سینہ پر مار کر دھکا دینا۔
وانت توڑنا۔ الریح علیہ: ہوا کا آنا۔

ذقیم (س) ذقمتا اگلے دانتوں کا گرنا۔ صفت ذقیقہ آذقیم۔

آذقیم فہا: اگلے دانتوں کو توڑنا۔

الذقیم سخت غم۔

الذقیمۃ منہ کا اگلا حصہ۔

الذقیم نقصان۔

الذقیص ریشم۔

ذقن (ن) ذقنتا فی لحمی الزجل: ٹھنڈی پیر مکا مارنا۔ ذقنتہ منع کرنا یا زکھنا۔ محروم کرنا۔

ذک (ن) ذکنا الحائض: دیوار گرا کر زمین کے برابر کرنا۔

الذواب: مٹی کوٹ کر ہموار کرنا۔ البینت: کونٹوں کو مٹی وغیرہ ڈال کر پاننا۔

الذباب علی المیت: میت پر مٹی ڈالنا۔

الذبابۃ فی المسیر: جانور کو تھکانا۔ کہا جاتا ہے "ذکت الحمی الزجل" بخار نے مرو کو کمزور کر دیا۔

ذک مریض ہونا۔

ذکک الشئی بالشئی: طانا۔ مخلوط کرنا۔

ذکک ہموار ہونا۔ الزجل: ریت کا بت ہونا۔

الذک ہونا۔ السیفام: کوبان کا پیٹھ کے برابر ہونا۔

ذک الذک علیہ القوم: بھیڑ کرنا۔

الذک: ہ۔ ہموار زمین۔ ہموار جگہ۔ حج ذمؤک۔

الذک حج ذمؤک و الذکاء حج ذکاء ات۔ نرم مٹی کا پیٹھ۔ نرم پہاڑ۔ الذکاء: پست کوبان کی اونٹنی۔

الذکۃ ازارینہ: صحیح لفظ التکۃ ہے۔
الذکۃ: ہموار ریگستان۔ بیٹھے یا کرسی رکھنے کے لیے چھو ترہ۔ حج ذکاک۔

الذکمان۔ دکان۔ چھو ترہ۔ حج ذکاکین۔
الذکاک۔ بہت روندنے والا۔ بہت کوٹنے والا۔

الذک۔ چوڑی پیٹھ والا چھوٹا گھوڑا۔
بغیر کوبان کا اونٹ۔ اور اس سے اسم (الذکک) ہے۔ حج ذک و ذمؤک مؤنث ذکاء۔ یوم أو مشہر

او حؤل (ذکینک) پورا دن یا مینہ یا سال۔
المدک۔ مضبوط و قوی زمین کو سخت روندنے والا امر۔ ہموار کرنے کا اوزار۔

أمۃ (مدکۃ) کام کرنے میں قوی باندی۔
ذکذک الخفۃ: گڑھے کو مٹی سے بھر دینا۔

ذکذکث۔ الجبائل: گرنا۔
الذکذک والذکذک۔ حج ذکاذک و (الذکذاک) حج ذکاذینک: سخت زمین۔

ذکس (ن) ذکسا الشئی: بھرتا۔
ذکس (س) ذکسا الشئی: نہ بتہ ہونا۔

أذکس المکان: سبزی ظاہر ہونا۔
الذکسۃ: من الناس لوگوں کی جماعت۔

الذاکس۔ فا۔ چھینک وغیرہ سے بدفالی۔
الذاکس من الظباء: وہ ہرن جو پیچھے سے آئے اور اس سے بدفالی لیا کرتے تھے۔

الذکاس۔ اوتگہ۔
الذوکس۔ شیر۔ بہت چوپائے اور کیریاں۔

ذکل (ن) ذکلا۔ الطین: لینے کے لیے ہاتھ سے مٹی جمع کرنا۔ الشئی: روندنا۔

ذکل الذبابۃ: جانور کو مٹی میں لوٹانا۔
تذکل۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ علیہ:

تذکرنا۔ عنتہ: دیر کرنا۔
الذککۃ: پتلا گارا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ۔

الذکل۔ سیاہی مائل۔
الذکجل۔ روندنا ہوا۔

الذکالی۔ شیطان کا نام۔ ایک لغت "عم وال بھی ہے۔

ذکم (ن) ذکنا۔ الشئی: بعض کو بعض پر کوئی ہفتی صذره۔ سینہ پر مار کر بھانا۔ فہا

أو أنفہ: منہ یا ناک توڑنا۔ المرأة: مناع کرنا۔

ذکمۃ فی الشئی: داخل کرنا۔ ہ فی

ذکمۃ فی الشئی: داخل کرنا۔ ہ فی

ذکمۃ فی الشئی: داخل کرنا۔ ہ فی

ذاسبہ: سر میں سینگ سے مارنا۔

تذاکم القوم: ایک دوسرے کو بھانا۔

الذکمة۔ سیاہی مائل رنگ۔

ذکن (ن) ذکنا و ذکن۔ المناع: نہ بتہ رکھنا۔ ذکن الذکائن: دکان لگانا۔

ذکن (س) ذکنا۔ سیاہی مائل ہونا۔ صفت (أذکن) مؤنث ذکنا۔ حج ذکن۔

الذوب: میلنا اور آلود ہونا۔
الذکنة۔ سیاہی مائل رنگ۔

الذکمان۔ دکان کا چھو ترہ۔ حج ذکاکین (کلمہ فارسی ہے)

الذکائی۔ دکان والا۔
ذله (ن) دلالة و دلولة و دینلی۔ الی الشئی

و علیہ: راستہ دکھانا۔ رہنمائی کرنا۔ ا۔ (ض) ذلا و ذلا و ذلا و ذلا۔ ناز و نخرو کرنا۔

المرأة علی زوجهها: بناوٹی مخالفت کرنا۔
الزجل: فخر کرنا۔ اپنی داد و دوش کا احسان جتانہ۔

أذل إذلالاً۔ علیہ: محبت پر بھروسہ کرنا۔ اور اسی سے ہے "أذل فامل"۔ اس نے محبت پر بھروسہ کیا اور طول کر دیا۔ ذیری کرنا۔

علی أقرابه: اوپر سے دیا لینا۔ التازی علی صیدہ: اوپر سے جھوٹا مارنا۔ اور کہا جاتا ہے "هو یذل بہ"۔ اس پر بھروسہ کرتا ہے "أذل بالطریق"۔ بچکانا۔

تذل۔ علیہ: گستاخی و جرات کرنا۔
المرأة علی زوجهها: بناوٹی مخالفت کرنا۔

أذل۔ راستہ پانا۔ الماء: گرنا۔
استذل۔ علیہ: رہنمائی کرنے کو کہنا۔

استذل بکذا علی الامر: دلیل کرنا۔
الذالة۔ دال کا مؤنث۔ ناز و نخرو۔ جرات و ذیری۔ کہا جاتا ہے "لہ علیہ ذالۃ"۔ اس کو اس کے اوپر ناز ہے۔

الذل۔ ہ۔ سکون و اطمینان کی حالت۔ اچھی سیرت۔

الذلال۔ ہ۔ ناز و نخرو۔
الذوالاء۔ ناز۔

الدلالة۔ دلالی کا پیشہ۔ دلال یا رہبری کی اجرت۔

دلص (ن) ذلیصا۔ چمکتا۔ نرم ہوتا۔ صفت
 (ذلیص) ج دلاص و ذلیص ج ذلص۔
 ذلیصت (س) ذلاصۃ۔ النافقہ: بوزمی اور
 گرے ہوئے دانت والی ہوتا۔
 ذلص۔ الشی: چمکدار کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”ذلص المنیل الحجر“ سیلاب نے پتھر کو
 چمکدار بنادیا۔ الذرع: بلغم کرنا۔
 الحبین: بال اٹھینا۔
 اذلص۔ الشی من یدہ: پھسل کر کرنا۔
 الشی من الشی: لگانا۔
 الذلیص والذلیصۃ: ہوار زمین۔
 الدلاص۔ نرم و چمکدار۔ کہا جاتا ہے ”ذرع
 دلاص“ نرم و چمکدار زرہ۔
 الدلاص۔ نرم، چمکنا، چمکدار۔
 ذلظہ (ض) ذلظا۔ سینہ میں مار کر ہٹانا۔ ذلظ
 فی سینہ: تیز کرنا۔
 ذالظہ۔ مدافعت کرنا۔
 اذلظ۔ الماء: زور سے بننے لگانا۔
 ذلغ (ف) ذلغوا و اذلغ لسانہ: زبان نکالنا۔
 ذلغ (ف) ذلغوا و ذلغوا و اذلغ و اذلغ۔
 لسانہ: زبان کا منہ سے باہر لگانا۔ اذلغ
 البظن: پیٹ کا بڑا اور ڈھیلہ ہونا۔
 السیف: تلوار کا مینا سے باہر لگانا۔
 الذلیغ والذلیغ: کشادہ راستہ۔ نرم راستہ۔
 ج ذلیغ۔ والذلیغ من التوق: آدھوں سے
 آگے رہنے والی اونٹنی۔
 الذلیغ والذلیغۃ: سمندری مچھلی کی ایک
 قسم۔
 المذلیغ: تازہ نعمت میں پرورش یافتہ۔ اسم
 (الذلیغۃ) اور یہ مولدین کے نزدیک ہے۔
 الذلیغ والذلیغ والذلیغ والذلیغ
 والذلیغ والذلیغ۔ من الجمال: سدھا
 ہو اونٹ۔
 الذلیغان: چپکنے والی مٹی۔ (نعت عامیہ ہے)
 ذلف (ض) ذلفا و ذلفا و ذلوا و ذلیفا
 و ذلفانا۔ بیڑی پرے ہوئے کی طرح آہستہ
 آہستہ چلنا۔ النافقۃ بحملہا: اونٹنی کا
 بوجھ لے کر اٹھنا۔ الجنش: لشکر کا آگے

دلح (ف) ذلوا۔ بوجھ کی وجہ سے آہستہ چلنا۔
 ذلح۔ الرجلان الشیٰ بینہما: کسی چیز کو
 لکڑی پر اٹھانا۔
 الذلیح۔ ج ذلح و ذوالح و الذلوح) ج
 ذلح: بہت پانی والا بادل۔
 فوش (ذلح) سوار کو نہ تھکانے والا گھوڑا۔ بہت
 پسینہ والا گھوڑا۔
 ذلیح (س) ذلحنا۔ موٹا ہونا۔ الإناء: بھر
 کر سہ پڑنا۔
 الذلیح۔ موٹا۔ کہا جاتا ہے ”بعض الذلیح و ابل ذلح
 و ذوالح۔“
 الذلوح۔ موٹا۔ ج ذلح۔
 ذلذل ذلذۃ۔ اعضائہ اوزارہ: چلنے میں
 ہلانا۔
 تذذلذل۔ فی مشیہ: لڑکھانا۔ الشیٰ:
 لکھتے ہوئے لگانا۔
 الذذل والذذلون۔ سی۔ الذذل: بڑا
 معاملہ۔
 الذذلال۔ اضطراب۔ قوم ذذلال: لڑکھاتی
 ہوئی چلنے والی قوم۔
 ذلس۔ البانیغ: سلمان کے عیب کو چھپانا
 المعذت: محدث کا حدیث کی روایت
 میں اپنے راوی کا نام نہ لینا بلکہ اس سے اوپر کے
 راوی کا نام لینا اور لفظ ایسا اختیار کرنا جس میں صلح
 کا احتمال ہو۔
 ذالسنہ مذالسنۃ۔ فریب دینا۔ ظلم کرنا۔ کہا جاتا
 ہے ”هو لا یندالسن ولا یوانسن“ وہ نہ ظلم کرتا
 ہے نہ خیانت۔
 اذلس۔ المکان: موسم گرما کے آخر میں یا چر
 لینے کے بعد سرسبز ہونا۔
 تذلس۔ الرجل: چھینا۔ الطعام: تھوڑا
 تھوڑا لینا۔ الذایبۃ: چر آگاہ میں تھوڑی سی
 گھاس کو چٹ کر جانا۔
 اذلس۔ الشیٰ: پوشیدہ ہونا۔
 الذلس۔ فریب دھوکا۔
 الذلس۔ بات جو موسم گرما کے اخیر میں یا چر
 لینے کے بعد سرسبز ہو جائے۔ ج اذلس (۔
 والذلسۃ) تاریکی۔

الذلال۔ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان کا
 آدمی۔
 الذلیل۔ ج أدلۃ و أدلاء و (الذلالۃ) ج
 ذلیل: بہرہ چیز جس سے رہنمائی ہو سکے۔ حجت
 و دلیل۔ الذلیل: رہنما۔ مرشد۔
 الذلۃ۔ احسان۔ تازہ و نخرہ کرنا۔
 الأذل۔ احسان جتانے والا۔
 الذلی والذلیلۃ۔ واضح راستہ۔
 الشلیل۔ فا۔ اپنے اوپر اور اپنے سامان پر
 بھروسہ رکھنے والا۔ الشلیل بالشجاعۃ: دلیر۔
 الذلب۔ چنار کا درخت۔ واحد (ذلبۃ)
 الذلبۃ۔ سیبی۔
 الذالب۔ چنگاری جو بجھی نہ ہو۔
 الذولاب والذولاب۔ رحب۔ چرخی پر
 گھومنے والی چیز۔ ج ذوالب (دخیل)
 المذلبۃ۔ بہت چنار کے درختوں والی زمین۔
 الذلبوث۔ ایک قسم کی گھاس کا نام۔
 ذلت (ض) ذلیفا۔ قریب قریب قدم رکھنا۔
 تذلت۔ الیہ: کسی کے پاس گھس پڑنا۔
 اذلت۔ الرجل: خود سر ہونا۔
 اذلت۔ الشیٰ: ڈھا لگانا۔
 الذلات۔ تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے ”رجل
 ذلات و نافعۃ ذلات۔ ج ذلت و ذلت“
 ذلح (ض) ذلوا۔ کنوئیں سے پانی نکال کر
 حوض میں ڈالنا۔ صفت (الذلیح ج ذلیح۔
 اذلیح اذلیحا و اذلیح اذلیحا۔ القوم: پوری
 رات یا آخری حصہ میں چلنا۔ اسم (الذلیحۃ
 والذلیحۃ)
 الذلیح والذلیجان والذلیحۃ۔ رات کے
 آخری حصہ کا وقت۔
 الذلیح۔ خانہ (۔ والذلیحۃ) وحشی
 جانوروں کا بھٹ۔
 المذلیحۃ۔ لکڑی یا چمڑے کا بڑا رتن جس میں
 دودھ لے جایا جائے۔ ذول۔
 المذلیح والمذلیحۃ۔ حوض اور کنوئیں کے
 درمیان کا راستہ۔
 المذلاج۔ آخری رات میں چلنے کا مادی۔
 المذلیج و أبو مذلیج۔ سی۔

<p>ایک قسم جماعت و عمن۔ الدَّلْمُتِ وَالذَّلَامِثِ۔ تیز رفتار۔ ذَلَمَزَ ذَلَمَزَةً بِرَأْسِهِ لِيَا۔ تَذَلَمَزَ عَلَى الْأَمْرِ إِرَادَهُ كَرَاهًا۔ الدَّلْمَزُ بِمِثِّ مَعْضُوبٍ۔ الدَّلَامِزُ شَيْطَانٌ قَوِيٌّ وَدُورٌ مِمَّنْ مَرَدٌ۔ إِذْ لَمَسَ إِذْ لَمَسْنَا۔ اللَّيْلُ: نِخْتٌ تَارِكِيٌّ هُوَا۔</p>	<p>او نئی ج ذلق۔ الدَّلِيمُ بَرَحَايَةٍ كِي وَجَدَ سَے ٹوٹے ہوئے دانتوں والی اونٹنی (میم زائد ہے)۔ ذَلِكْ (ان) ذَلِكَا۔ الشَّقِي: رُكْزَا۔ لَمَزْتُ كَرَاهًا هَذَا هَذَا: حَجْرَةً كَارِيَانَا _____ وَجْهَهُ بِالطَّبِيبِ: خُوشِيُو لَكَانَا _____ الرَّجُلُ حَقَقَهُ: قَلَمٌ كَرْنَا _____ غَرَبْنَا: قَرْضٌ خَوَاهُ كُو ثَانَا (____ ذَلُوْنَا) الشَّمْسُ: دُوبِيْنَةُ كَے قَرِيبُ هُوَا۔ صِفَتُ (ذَالِكِ)</p>	<p>بڑھنا۔ صفت (ذالف) ج ذَلْفٌ وَذَلْفٌ۔ أَذْلَفَ لَهَذَا الْقَوْلُ: عِنْتِي سَے مَنگُو كَرْنَا _____ ه الْكَيْبُ: آهَسْتِ جَلَانَا۔ تَذَلْفَ إِلَيْهِ: چَلَانَا وَرُزُو كِي هُوَا۔ إِنذَلْفَ عَلَيْهِ: مَرَا۔ الذالف: تیز چلنے والے کے قریب گئے اور پھر وہاں سے علیحدہ ہو جائے۔ الدلف: ہمار۔ الدلوف: تیز اڑنے والا گدھ۔ موٹا اونٹ۔ بہت چھلدا اور سخت خراب۔ ج ذلف۔</p>
<p>الدلميس والذلاميس۔ سخت تاریکی۔ مصیبت۔ الدلميس۔ مصیبت۔ تذلمض۔ زامشہ: سر کا گھما ہوا۔ الدلمص والذلامص۔ چمکدار۔ راس ذلمص۔ گھما سر۔ الدلمض۔ بوڑھی اونٹنی۔ ظریق (ذلق) نرم راست۔ ج ذلابع۔ ذَلِيْهِ (س) ذَلَهَا وَذَلَهَا وَذَلُوْهَا وَتَذَلَهُ غَمٌّ عَشَقٌ وَغَيْرُ سَے سَرگِشْتِ هُوَا۔ حِرَانٌ هُوَا۔ ذَلَهُ (ف) ذَلَهَا: عَنَتَهُ: تَلِيْ يَانَا۔ ذَلَهَا: حِرَانٌ كَرْنَا۔ دُوش كَرْنَا۔ الدالو والذالها۔ غم و عشق وغیرہ کی وجہ سے سَرگِشْتِ وَ دِيْوَان۔ كَمَا جَانَا هُوَا "ذَهَبَ ذَهَبٌ ذَلَهَا" اس کا خون رائیگاں گیا۔ المذله۔ عشق وغیرہ کی وجہ سے بے خود دل رفتہ۔</p>	<p>ذَلِكَ هَذَا الْكَلِمَةُ الْغَرِيْبَةُ: قَرْضٌ خَوَاهُ كُو ثَانَا۔ تَذَلْتُ: نَمَانِے كَے وَقْتُ بَدَنُ لَمَانَا بِالطَّبِيبِ: خُوشِيُو لَكَانَا۔ الذلك۔ نرمی۔ كَمَا جَانَا هُوَا "فِي زَكِيَّتِهِ ذَلْتُ" اس كَے زَانُوِيں نرمی هُوَا۔ غُرُوبٌ أَقْرَابٌ كَا وَقْتُ۔ الذلوک۔ لگانے کی خوشبو یا دوا وغیرہ۔ الذليک۔ وہ شخص جس کو زمانہ نے تجزیہ کار بنا دیا ہو۔ ج ذلک۔ خاک جس کو ہوا اُڑا دے۔ ایک قسم کی نباتات۔ الذلوک۔ بڑا معاملہ۔ ج ذالیک۔ المذلت والمذلتة۔ ملنے کا دوزار۔ المذلوک۔ غم۔ البعير المذلوک: نرم گھٹنے والا اونٹ۔ وہ شخص جو سفر کی وجہ سے تجزیہ کار ہو گیا ہو۔ المذالك۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو گھٹیا باتوں سے بلند نہ رکھے۔</p>	<p>ذلق (ان) ذلقا واذلق۔ السيف من غمديه: تکوار کو میان سے سونٹنا۔ ذلق الباب: دروازہ کو زور سے کھولنا _____ عَلَيْهِمُ الْغَاظَةُ: لوث ڈالنا _____ البعير شفيقتة: اونٹ کا جھاگ نکلنا۔ (____ ذلقا واذلوقا۔ السيف): تکوار کا میان سے نکل پڑنا _____ الخيل: گھوڑوں کا پے و رپے نکلنا۔ صفت (ذلق) واحد (ذالوق) وذلوق) انذلق۔ الشقي: اپنی جگہ سے نکل پڑنا۔ _____ الخيل: گھوڑوں کا بہت تیزی کے ساتھ نکل پڑنا _____ السيف: تکوار کا میان سے نکل پڑنا۔ تذلق۔ السيل عليه: بہت تیزی کے ساتھ سیلاب کا بہ پڑنا۔ استذلق۔ السيف: میان سے نکالنا۔</p>
<p>ذلهت۔ الرجل: جلد آگے بڑھنا۔ الذلهت والذلاهت والذلهات۔ پیش قدمی کرنے والا۔ دلیر۔ شیر۔ اذلهت الليل: رات کا سخت تاریک ہونا۔ _____ الظلام: گھٹا ٹوپ اندھیر ہونا _____ الرجل: بوڑھا ہونا۔ الذلهم۔ تاریک۔ بھیرا۔ زسک خوار پرندہ۔ عشق کی وجہ سے عقل رفتہ وہ ہوش۔ الذلهام والذلهتمس۔ دلیر۔ ہمار۔ شیر۔ الذلهتمس۔ بہت تاریک رات۔ اذلهت اذلهتانا: بوڑھا ہونا۔ ذلا (ان) ذلوا واذلى۔ الذلو: ڈول کتوں میں نکلنا۔ نکالنے کے لیے کھینچنا۔ حاجتہ: حاجت</p>	<p>ذَلِيمٌ (س) ذَلَمَا وَذَلَامًا إِذْ لَمَسْنَا۔ چمکدار سیاہ ہووا۔ صفت (اذلم) مؤنث ذلماء۔ ذلمت الشقة: ہونٹ کا ڈھیلا ہونا اور نکلنا۔ إذلام الليل: رات کا بہت تاریک ہونا۔ أذلم شفتة: ہونٹ کا ڈھیلا کرنا۔ الذلم: ہاتھی۔ الذلام۔ سیاہی۔ سیاہی۔ كَمَا جَانَا هُوَا "شَقِي ذَلَامٌ" کالی چیز۔ الذلاء۔ قمری مینہ کی تیسوی رات۔ الاذلام۔ مِنَ الْأَلْوَانِ: کَلا۔ کَلا۔ سَاسِ۔ لَمَا کَلا۔ الذيلم۔ کرود کی ایک جماعت کا نام۔ مصیبت۔ حوض کے پاس چوٹیوں اور چوٹیوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ لشکر۔ زیتیر۔ ظاہرندہ کی</p>	<p>ذلق ایک جانور کا نام ہے جو بلی سے چھوٹا ہوتا ہے اس کا رنگ زرد ہوتا ہے پیٹ اور گردن میں کچھ سفیدی ہوتی ہے۔ سنیف (ذلق) و ذالوق وذلوق میان سے آسانی سے نکلنے والی تکوار۔ غَاظَةُ ذَلُوْقٍ: سخت لوث۔ نَاقَةُ ذَلُوْقٍ: بڑھاپے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دانتوں والی</p>

طلب کرتا۔ ذلّاه: نرمی و مہربانی کا سلوک کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَلُّوْتُ بِفُلَانٍ الْيَتِيمَ" میں نے تیرے پاس فلاں کو سفارش کیا۔" و "ذَلَّاهُ بِغُلُوْرٍ" اس نے اس کو دھوکے میں ڈالا۔ ذَلُّوْتُ بِالذَّلُو: ذُل سے پائی کھینچنا۔ ذَلَّاهُ بِالْحَبْلِ مِنْ السُّطْحِ: اس نے اس کو رستی کے ذریعہ چھت سے الگ کیا۔	ج دَمَائِمٍ وَ دِمَامٍ۔ دَمَمَ الشَّيْءُ: کسی چیز پر طلاء کرنا۔ أَدَمَ الرَّجُلُ: بڑی بات کرنا یا بد صورت پچھوالا ہونا۔ الذَّمُّ وَ الدِّمَمُ وَ الدِّمَامُ: ہر وہ چیز جو بطور طلاء کے استعمال کی جائے۔ الذَّمُّ: بھمتی خون۔ الدِّمَمَةُ: چھوٹی۔ بون۔ جھپٹی۔ بکریوں کا بازو۔ بلی۔ حقیر و ست قدر مرد۔ الدِّمَمَةُ: روشن۔ طریقہ۔ گزیا۔ ج دَمَمٍ۔ الدِّمَمُومُ وَ الدِّمَمُومَةُ: وسیع۔ بیابان۔ ج دَمَائِمِهِمُ: الدِّمَمُومَةُ: بھمتی روم و بیٹھکی۔ المِدْمَمَةُ: ایک قسم کی دندانہ دار لکڑی جس سے زمین کو ہوار کرتے ہیں۔ المَدْمُومُ: خون کی مانند سرخ۔ بہت موٹا۔ چربی دار۔	ذَلَّاهُ: نرمی و مہربانی کا سلوک کرنا۔ أَذَلُّهُ: اذلاء۔ کتوئیں میں ذُل لگانا۔ فِيْهِ: کسی کے بارے میں بڑی بات کرنا۔ بِقُرَابِهِ: قرابت سے وسیلہ پکڑنا۔ بِحُسْنِيَّتِهِ: دلیل بیان کرنا۔ اَللّٰهُ بِمَالٍ رِيًّا۔ أَذَلُّهُ اِلَى فُلَانٍ: کسی کے پاس جھگڑانے جانا۔ تَدَلَّى: التَّمَرُ مِنَ الشَّجَرِ: پھل کا لگنا۔ مِنَ الْحَبْلِ: گھوڑے سے آرتنا۔ اِذْلُوْنِيْ اِذْلِيْنَا: جلدی کرنا۔ الذَّلُو: ذُل (مؤنث ہے کبھی مذکر استعمال کرتے ہیں) ج ذلّاء و اذلى و ذلى و ذلى و ذلى۔ کہا جاتا ہے "أَلُوْ ذَلُوْكَ فِى الدِّلَاءِ" یعنی تم بھی کوشش کرو۔ الذَّلُو: ایک برج آسانی کا نام۔ أَوْثُ كَادِرُغٍ: مصیبت۔ الذَّلَاةُ: دُوبُجِجِ ذَلِيْ وَ ذَلَوَاتُ: الذَّالِي: ج ذلّاء۔ سیاہ گور۔ الذَّالِيَّةُ: رہت۔ زمین جس کو ڈول یا رہت سے سینچا جائے۔ انگور کی تیل۔ ج ذَوَالٍ (یہ مولد ہیں)
ذَلَّاهُ: نرمی و مہربانی کا سلوک کرنا۔ أَذَلُّهُ: اذلاء۔ کتوئیں میں ذُل لگانا۔ فِيْهِ: کسی کے بارے میں بڑی بات کرنا۔ بِقُرَابِهِ: قرابت سے وسیلہ پکڑنا۔ بِحُسْنِيَّتِهِ: دلیل بیان کرنا۔ اَللّٰهُ بِمَالٍ رِيًّا۔ أَذَلُّهُ اِلَى فُلَانٍ: کسی کے پاس جھگڑانے جانا۔ تَدَلَّى: التَّمَرُ مِنَ الشَّجَرِ: پھل کا لگنا۔ مِنَ الْحَبْلِ: گھوڑے سے آرتنا۔ اِذْلُوْنِيْ اِذْلِيْنَا: جلدی کرنا۔ الذَّلُو: ذُل (مؤنث ہے کبھی مذکر استعمال کرتے ہیں) ج ذلّاء و اذلى و ذلى و ذلى و ذلى۔ کہا جاتا ہے "أَلُوْ ذَلُوْكَ فِى الدِّلَاءِ" یعنی تم بھی کوشش کرو۔ الذَّلُو: ایک برج آسانی کا نام۔ أَوْثُ كَادِرُغٍ: مصیبت۔ الذَّلَاةُ: دُوبُجِجِ ذَلِيْ وَ ذَلَوَاتُ: الذَّالِي: ج ذلّاء۔ سیاہ گور۔ الذَّالِيَّةُ: رہت۔ زمین جس کو ڈول یا رہت سے سینچا جائے۔ انگور کی تیل۔ ج ذَوَالٍ (یہ مولد ہیں)	ذَمَّتْ (ک) اَلْمَانَةُ: نرم اخلاق ہونا۔ ذَمِثْ (س) اَلْمَكَانُ وَ عَثِيْرُهُ: نرم ہونا۔ ذَمَّتْ: المَضْجَعُ: نرم بنانا۔ المَكَانُ: نرم کرنا۔ لَةُ الْحَدِيْثِ: ذکر کرنا۔ الذَّمْتُ وَ الذَّمْتُ وَ الذَّمِثُ وَ الذَّمِثُ: نرم رتلی جگہ۔ ج دِمَامُتْ وَ اَذِمَامَاتُ: اور اسی سے ہے "رَجُلٌ ذَمِثُ الْاَخْلَاقِ" نرم اخلاق والا مرد۔ اَزْطَلَّ (ذَفَاء) نرم زمین۔ الذَّمُوْمَةُ: نرم خوئی۔ الذَّمَانِيْتُ: نرم چیزیں۔ واحد (ذَمِيْنَةُ) اَلْاَذْمُوْمَةُ: بھو بھل میں روئی پکانے کی جگہ۔ ذَمَجْ (ن) ذَمُوْمَجَا وَ اَلذَّمَجُ وَ اَلذَّمَجُ: فِى الشَّيْءِ: مضبوط گز جانا۔ ذَمَجَ الْاَمْرُ: درست ہونا۔ ذَمَجَهُ: فِى الشَّيْءِ: داخل کرنا۔ گاڑنا۔ ذَمَجَهُ ذَمَاجًا: عَلِيْهِمْ: موافقت کرنا۔ اَذَمَجَ: الشَّيْءُ فِى النَّوْبِ: کسی چیز کو کپڑے میں لپیٹنا۔ الْحَبْلُ: رستی کو اچھی طرح بننا۔ الكَلَامُ: بہتر ترتیب دینا۔ الْفَرَسُ: ڈبلا کرنا۔ تَدَامَجَ: الْقَوْمُ عَلَيْهِ: باہم مدد کرنا۔ اَلْمُتَمَاجِعُ: ہونا۔	ذَمَّتْ (ک) اَلْمَانَةُ: نرم اخلاق ہونا۔ ذَمِثْ (س) اَلْمَكَانُ وَ عَثِيْرُهُ: نرم ہونا۔ ذَمَّتْ: المَضْجَعُ: نرم بنانا۔ المَكَانُ: نرم کرنا۔ لَةُ الْحَدِيْثِ: ذکر کرنا۔ الذَّمْتُ وَ الذَّمْتُ وَ الذَّمِثُ وَ الذَّمِثُ: نرم رتلی جگہ۔ ج دِمَامُتْ وَ اَذِمَامَاتُ: اور اسی سے ہے "رَجُلٌ ذَمِثُ الْاَخْلَاقِ" نرم اخلاق والا مرد۔ اَزْطَلَّ (ذَفَاء) نرم زمین۔ الذَّمُوْمَةُ: نرم خوئی۔ الذَّمَانِيْتُ: نرم چیزیں۔ واحد (ذَمِيْنَةُ) اَلْاَذْمُوْمَةُ: بھو بھل میں روئی پکانے کی جگہ۔ ذَمَجْ (ن) ذَمُوْمَجَا وَ اَلذَّمَجُ وَ اَلذَّمَجُ: فِى الشَّيْءِ: مضبوط گز جانا۔ ذَمَجَ الْاَمْرُ: درست ہونا۔ ذَمَجَهُ: فِى الشَّيْءِ: داخل کرنا۔ گاڑنا۔ ذَمَجَهُ ذَمَاجًا: عَلِيْهِمْ: موافقت کرنا۔ اَذَمَجَ: الشَّيْءُ فِى النَّوْبِ: کسی چیز کو کپڑے میں لپیٹنا۔ الْحَبْلُ: رستی کو اچھی طرح بننا۔ الكَلَامُ: بہتر ترتیب دینا۔ الْفَرَسُ: ڈبلا کرنا۔ تَدَامَجَ: الْقَوْمُ عَلَيْهِ: باہم مدد کرنا۔ اَلْمُتَمَاجِعُ: ہونا۔
ذَمَّتْ (ک) اَلْمَانَةُ: نرم اخلاق ہونا۔ ذَمِثْ (س) اَلْمَكَانُ وَ عَثِيْرُهُ: نرم ہونا۔ ذَمَّتْ: المَضْجَعُ: نرم بنانا۔ المَكَانُ: نرم کرنا۔ لَةُ الْحَدِيْثِ: ذکر کرنا۔ الذَّمْتُ وَ الذَّمْتُ وَ الذَّمِثُ وَ الذَّمِثُ: نرم رتلی جگہ۔ ج دِمَامُتْ وَ اَذِمَامَاتُ: اور اسی سے ہے "رَجُلٌ ذَمِثُ الْاَخْلَاقِ" نرم اخلاق والا مرد۔ اَزْطَلَّ (ذَفَاء) نرم زمین۔ الذَّمُوْمَةُ: نرم خوئی۔ الذَّمَانِيْتُ: نرم چیزیں۔ واحد (ذَمِيْنَةُ) اَلْاَذْمُوْمَةُ: بھو بھل میں روئی پکانے کی جگہ۔ ذَمَجْ (ن) ذَمُوْمَجَا وَ اَلذَّمَجُ وَ اَلذَّمَجُ: فِى الشَّيْءِ: مضبوط گز جانا۔ ذَمَجَ الْاَمْرُ: درست ہونا۔ ذَمَجَهُ: فِى الشَّيْءِ: داخل کرنا۔ گاڑنا۔ ذَمَجَهُ ذَمَاجًا: عَلِيْهِمْ: موافقت کرنا۔ اَذَمَجَ: الشَّيْءُ فِى النَّوْبِ: کسی چیز کو کپڑے میں لپیٹنا۔ الْحَبْلُ: رستی کو اچھی طرح بننا۔ الكَلَامُ: بہتر ترتیب دینا۔ الْفَرَسُ: ڈبلا کرنا۔ تَدَامَجَ: الْقَوْمُ عَلَيْهِ: باہم مدد کرنا۔ اَلْمُتَمَاجِعُ: ہونا۔	ذَمَّتْ (ک) اَلْمَانَةُ: نرم اخلاق ہونا۔ ذَمِثْ (س) اَلْمَكَانُ وَ عَثِيْرُهُ: نرم ہونا۔ ذَمَّتْ: المَضْجَعُ: نرم بنانا۔ المَكَانُ: نرم کرنا۔ لَةُ الْحَدِيْثِ: ذکر کرنا۔ الذَّمْتُ وَ الذَّمْتُ وَ الذَّمِثُ وَ الذَّمِثُ: نرم رتلی جگہ۔ ج دِمَامُتْ وَ اَذِمَامَاتُ: اور اسی سے ہے "رَجُلٌ ذَمِثُ الْاَخْلَاقِ" نرم اخلاق والا مرد۔ اَزْطَلَّ (ذَفَاء) نرم زمین۔ الذَّمُوْمَةُ: نرم خوئی۔ الذَّمَانِيْتُ: نرم چیزیں۔ واحد (ذَمِيْنَةُ) اَلْاَذْمُوْمَةُ: بھو بھل میں روئی پکانے کی جگہ۔ ذَمَجْ (ن) ذَمُوْمَجَا وَ اَلذَّمَجُ وَ اَلذَّمَجُ: فِى الشَّيْءِ: مضبوط گز جانا۔ ذَمَجَ الْاَمْرُ: درست ہونا۔ ذَمَجَهُ: فِى الشَّيْءِ: داخل کرنا۔ گاڑنا۔ ذَمَجَهُ ذَمَاجًا: عَلِيْهِمْ: موافقت کرنا۔ اَذَمَجَ: الشَّيْءُ فِى النَّوْبِ: کسی چیز کو کپڑے میں لپیٹنا۔ الْحَبْلُ: رستی کو اچھی طرح بننا۔ الكَلَامُ: بہتر ترتیب دینا۔ الْفَرَسُ: ڈبلا کرنا۔ تَدَامَجَ: الْقَوْمُ عَلَيْهِ: باہم مدد کرنا۔ اَلْمُتَمَاجِعُ: ہونا۔	ذَمَّتْ (ک) اَلْمَانَةُ: نرم اخلاق ہونا۔ ذَمِثْ (س) اَلْمَكَانُ وَ عَثِيْرُهُ: نرم ہونا۔ ذَمَّتْ: المَضْجَعُ: نرم بنانا۔ المَكَانُ: نرم کرنا۔ لَةُ الْحَدِيْثِ: ذکر کرنا۔ الذَّمْتُ وَ الذَّمْتُ وَ الذَّمِثُ وَ الذَّمِثُ: نرم رتلی جگہ۔ ج دِمَامُتْ وَ اَذِمَامَاتُ: اور اسی سے ہے "رَجُلٌ ذَمِثُ الْاَخْلَاقِ" نرم اخلاق والا مرد۔ اَزْطَلَّ (ذَفَاء) نرم زمین۔ الذَّمُوْمَةُ: نرم خوئی۔ الذَّمَانِيْتُ: نرم چیزیں۔ واحد (ذَمِيْنَةُ) اَلْاَذْمُوْمَةُ: بھو بھل میں روئی پکانے کی جگہ۔ ذَمَجْ (ن) ذَمُوْمَجَا وَ اَلذَّمَجُ وَ اَلذَّمَجُ: فِى الشَّيْءِ: مضبوط گز جانا۔ ذَمَجَ الْاَمْرُ: درست ہونا۔ ذَمَجَهُ: فِى الشَّيْءِ: داخل کرنا۔ گاڑنا۔ ذَمَجَهُ ذَمَاجًا: عَلِيْهِمْ: موافقت کرنا۔ اَذَمَجَ: الشَّيْءُ فِى النَّوْبِ: کسی چیز کو کپڑے میں لپیٹنا۔ الْحَبْلُ: رستی کو اچھی طرح بننا۔ الكَلَامُ: بہتر ترتیب دینا۔ الْفَرَسُ: ڈبلا کرنا۔ تَدَامَجَ: الْقَوْمُ عَلَيْهِ: باہم مدد کرنا۔ اَلْمُتَمَاجِعُ: ہونا۔

کرنا۔ چھپانا۔ دَمَسَ عَلَيْهِ السَّبْرُ اَوِ الْخَيْرُ: پوشیدہ کرنا _____ يَنْهَمُ: اصلاح کرنا۔ دَمَسَتْ (س) دَمَسًا يَدُهُ: گندگی سے آلودہ ہوئی۔ دَامَسَ مُدَامَسَةً: الشَّيْءُ: چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔ أَدَمَسَ: اللَّيْلُ: تاریک ہونا _____ الشَّيْءُ: پوشیدہ کرنا۔ تَدَمَسَ: آلودہ ہونا۔ تھرتھانا۔ إِنْدَمَسَ: بے خانہ میں داخل ہونا۔ الدَّمَسُ: بے صورت جو دور سے دکھائی دے۔ کہا جاتا ہے "زَايَتْ دَمَسًا" میں نے صورت دیکھی۔ الدَّمَسُ مِنَ الْأَمْوَالِ: بڑے بڑے امور۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ نَابِئًا مُؤَدِّمًا" وہ ہمارے پاس بڑے بڑے امور لایا۔ الدَّمَسُ وَالذَّمْسُ: ہر وہ چیز جو ڈھک دی جائے۔ الذَّمَسُ: ہر وہ چیز جو کم کو چھپالے۔ الدَّمَامُوسُ: شکاری کے چھپنے کی جگہ۔ ج ذَوَائِمِيسُ۔ الذَّمَامُوسُ وَالذَّمَامُوسُ: بے خانہ۔ غسل خانہ۔ قبر۔ ج ذَوَائِمِيسُ وَذَمَامِيسُ۔ قَيْلٌ (أَدْمُوسٌ) تاریک رات۔ الذَّمَامِيسُ: گہری جگہیں جہاں روشنی نہ پہنچے۔ الدَّمُشَقِيُّ: رومیوں کے کمانڈر کا لقب۔ ج ذَمَائِقُ۔ ذَمَشَقُ: الْأَمْرُ: جلدی سے پورا کرنا _____ الشَّيْءُ: آراستہ کرنا۔ تَدَمَشَقُ: دمشق میں آنا۔ ذَمَشَقِيُّ: الْيَدِيْنِ: دونوں ہاتھوں سے جلدی کام کرنے والا۔ دِمَشَقِيٌّ وَدِمَشَقِيٌّ: شام کا دار الخلافہ۔ نسبت کے لیے دِمَشَقِيٌّ ج ذَمَائِقَةُ۔ الدَّمُشَقِيُّ: تہمت بہتا ہوا گوشت۔ دَمَصَ (ن) دَمَصًا: فِي الشَّيْءِ: جلدی کرنا۔	دَمَصَتْ الْكَلْبَةُ بِجُزْءِهَا: ناتمام پچھرا کرنا۔ دَمِصَ (س) دَمَصًا: سر میں کم بال والا ہونا۔ بچھلے حصہ میں باریک اور اگلے حصہ میں موٹی بروؤں والا ہونا۔ صفت (أَدَمِصَ) مؤنث دَمِصَاءُ ج دَمِصَ۔ دَمِصَتْ (ف) دَمِصًا وَدَمِصَتْ: (س) دَمِصًا وَدَمِصَانًا وَدَمِصَعًا: الْعَيْنُ: آنسو بہنا۔ دَمِصَ الْإِنَاءُ: بھرنا۔ أَدَمِصَ: الْإِنَاءُ: بالباب بھرنا۔ إِسْتَدَمِصَ: آنسو بہانا۔ الدَمِصُ: آنسو۔ واحد (دَمِصَةٌ) ج دَمِصُوعٌ وَدَمِصُوعٌ: دَمِصَةُ الْكَرْزِمِ: شراب۔ إِمْرَأَةٌ: (ذَمِصَةٌ وَدَمِصِيَّةٌ) جلدی رونے والی۔ بست آنسوؤں والی عورت۔ ج ذَمِصِيَّةٌ وَدَمِصَائِعُ۔ وَرَجُلٌ ذَمِصٌ: جلدی رونے والا۔ بست آنسوؤں والا مرد۔ ج دَمِصَاءٌ وَدَمِصِيٌّ۔ الدَمِصُ: نا۔ مَكَانٌ ذَمِصٌ: نمناک جگہ۔ شَجَّةٌ ذَمِصَةٌ: خون بہانے والا زخم۔ الدَمِصَاعُ: پانی جو درخت کے کانٹے سے نکلے۔ آگھ کپانی جو بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے نکلے۔ الدَمِصَاعُ وَالدَمِصُوعُ: بست آنسو والا۔ الدَمِصَاعُ: نمناک جگہ۔ يَوْمٌ ذَمِصَاعٌ: خفیف بارش کا دن۔ قَدَحٌ (دَمِصَانٌ) بالباب بھرا ہوا پیالہ۔ الذَّمِصُوعُ: آنسو بہنے کی جگہ۔ ج ذَمَامِيعُ۔ الدَمِصَاعُ: رخسار پر آنسو کا نشان۔ ذَمِصَةٌ (ف ن) دَمِصًا: داغ تک زخمی کرنا۔ صفت مفعولی (دَمِصِيٌّ وَدَمِصُوعٌ) _____ هِ الشَّمْسُ: داغ کو تکلیف پہنچانا۔ _____ هِ: مغلوب کرنا _____ الْحَقُّ الْبَاطِلُ: نیست و تابود کرنا۔ باطل کرنا۔ ناپید کرنا۔ دَمِصٌ: الْأَطْعَمَةُ بِالذَّمِصِ: چربی ڈالنا۔ أَدَمِصَهُ: إِلَى كَذَا: جمان بنانا۔ حاجت مند بنانا۔ أَدَمِصَ الطَّعَامَ: لَغْنَا _____ الشَّيْءُ: داخل کرنا۔ شَجَّةٌ (ذَمِصَةٌ) دماغ تک پہنچنے والا زخم۔ الدَمِصَاعُ: سر کا بھیجا۔ ج أَدَمِصَةٌ: أَمُّ الدَمِصَاعِ: دماغ کے اوپر کی باریک جھلی۔ دَمِصَ (ن) دَمِصًا: عَلَيْهِ: بغیر اجازت کے داخل	ہونا۔ دَمِصَ (ن) (ض) دَمِصًا: الشَّيْءُ: جڑانا۔ فَأَهْ: دانت توڑنا۔ (_____ وَدَمِصَ وَادَمِصَ) الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: داخل کرنا۔ إِنْدَمِصَ: عَلَيْهِ: بغیر اجازت کے داخل ہونا۔ انگنا۔ الدَمِصُ: برف کے ساتھ سخت ہوا۔ الدَمِصِيُّ: نا۔ (_____ وَالدَمِصِيُّ) مِنَ الرِّجَالِ: خراب آدمی جس سے کوئی نفع نہ ہو۔ الدَمِصِيُّ: دوسرے میں داخل کیا ہوا۔ السَّمِصِقُ: داخل ہونے کی جگہ۔ الدَمِصُوسُ وَالذَّمِصُوسُ: سفید ریشم۔ دیا۔ نَوْبٌ (مَدَمِصٌ) ریشم کھانا ہوا کپڑا۔ ذَمِصَ (ن) دَمِصًا: الْأَزْنَبُ: خرگوش کا تیز دوڑنا _____ الشَّيْءُ: جگہ دار نرم ہونا۔ (_____) ذَمِصًا الشَّيْءُ: بیٹنا _____ الزَّمَانُ: رشتی بٹنا۔ الدَمِصِيَّةُ: مصیبت۔ ج ذَوَائِمِيعُ۔ الدَمِصُوكُ: تیز گزرنے والا۔ کہا جاتا ہے "رَحِيٌّ ذَمِصُوكٌ" تیز چلنے والی بگلی۔ ج ذَمِصُوكُ۔ الذَّمِصُوكُ: بیلن۔ الدَمِصَاكُ: کچی اینٹوں یا پتھروں کا رول۔ ج مَدَامِيعُوكُ۔ الدَمِصُوكُوكُ: بست مضبوط۔ رَحِيٌّ ذَمِصُوكُوكُ: تیز چلنے والی بگلی۔ ذَمِصَلٌ (ن) ذَمِصَلًا: الذَّمِصَلُ: پھوڑا اچھا کرنا۔ (ذَمِصَلٌ وَذَمِصَلٌ) يَنْهَمُ: اصلاح کرنا۔ ذَمِصَلٌ (س) ذَمِصَلًا: وَإِذَمِصَلٌ: وَإِنْدَمِصَلٌ: الجُزْءُ: زخم اچھا ہونا۔ ذَمِصَلَةٌ: زخمی سے سلوک کرنا۔ تَدَمِصَلٌ: الْمَسْكَانُ: بھاری ہونا۔ تَدَامِصَلٌ: الْقَوْمُ: باہم صلح کرنا۔ الذَّمِصَلُ: بے زخمی۔ کہا جاتا ہے "عَامَلَهُ بِالذَّمِصَلِ" اس نے اس کے ساتھ زخمی کا برتاؤ کیا۔ الذَّمِصَلُ وَالذَّمِصَلُ: پھوڑا۔ واحد (ذَمِصَلَةٌ) ج ذَمَامِيعُوكُ۔ الذَّمِصَالُ: کوڑا کرکٹ جس کو سنندر پھینک دے۔ سیاہ دیلا وار پرانی کجور۔ بیٹھی مٹی وغیرہ
---	--	---

فین ذنباً ذائبةً" وہ آسودہ زندگی میں ہے جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ وَهُوَ ابْنُ عِمٍّ دِنِي وَدِنِيَا وَدِنِيَا وَدِنِيَا وَدِنِيَا وَدِنِيَا" وہ چچا کا بیٹا ہے جو نسب میں لائق ہے۔

الدَّيْنِيُّ - من الرِّجَالِ: كزور۔
نَاقَةٌ (مَدْنِيٌّ وَ مَدْنِيَّةٌ) وضع حمل کے قریب والی اونٹنی۔

الذَّهَبُ - فلست خوروه لغيرك۔
ذَهَبٌ ذَهْبِيَّةٌ - بڑے بڑے لئے کھانا تاکہ کھانے میں دوسروں سے بازی لے جائے۔

ذَهَبَةٌ (ف) ذَهَابٌ - رفع کرنا۔ بھانا۔
الذَّهْمُ - قوی شہر۔ نرم عادت والا۔ نرم زمین۔
ذَهْدَقٌ ذَهْدَقَةٌ - اللُّحْمُ: مع ہڈی کے کٹنا۔
ذَهْدَقَتِ التَّبَضُّعَةَ: جوش کے وقت ہانڈی میں اوپر نیچے ہوتا۔

الذَّهْدَاقُ - دیک کا جوش۔
ذَهْدَمَ البِنَاءَ: دھماکا۔
تَدَهَّدَمَ - ویران ہونا۔ مندم ہونا۔
الذَّهْدَمُوزُ - بہت کھانے والا۔
الذَّهْدَنُ - مخلوق۔ لوگ۔

الذَّهْدَنُ - جھوٹ۔ باطل۔
ذَهْدَةٌ وَ ذَهْدِيٌّ - الخَجَرُ: لڑھکا۔
تَدَهْدَهُوَ وَ تَدَهْدِيٌّ - لڑھکا۔
الذَّهْدَوَةُ وَ الذَّهْدَوَةُ وَ الذَّهْدِيَّةُ - گھبراہٹ کی گولی۔

الذَّهْدَاؤُ وَ الذَّهْدَاءُ - چھوٹے چھوٹے اونٹ۔
کما جاتا ہے "مَا أَدْرِي أَيُّ الذَّهْدَاءِ هُوَ" میں نہیں جانتا وہ کون آئی ہے۔

ذَهْوٌ (ف) ذَهْوًا - القَوْمُ وَ بالقَوْمِ أَمْرٌ مَكْرُوفٌ: قوم پر امر یا پندیرہ واقع ہونا۔

الذَّهْرُ - زمانہ طویل۔ لمبی مدت۔ ذَهْوٌ الْإِنْسَانِ: انسان کے زور کی گزارنے کا زمانہ۔
دہر عمر کا ماروف ہے۔ مصیبت۔ غایت۔ عادت۔

کما جاتا ہے "مَا ذَاكَ بَدْهِيٌّ" یہ میری عادت نہیں "وَمَا ذَهْرِيٌّ بِكَذِّ" یہ میری غایت و استقامت نہیں۔ غلبہ۔ جِ ذَهْوٌ وَ ذَهْوَرٌ: کما جاتا ہے "لَا تَبْدَهُ ذَهْوُ الدَّاهِرِينَ" میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔

إِلَيْهِ النَّظَرُ: لگا کر دیکھنا۔

الدَّنْفَةُ - گیسوں میں ایک قسم کا دانہ جس کو اکرایا منساکتے ہیں۔

الدَّائِقُ - فَا - يوقف - چور (الدَّائِقُ) درہم کے چھپے حصہ کا ایک سکہ۔ ج ذَوَائِقُ وَ ذَوَائِقُ (كلمة فارسية) الذَّنْفَرُ - شورہ۔

ذَنْفَسٌ - زوریدہ نگاہ سے دیکھنا۔ يَنْتَهُمُ: فسار ڈالنا۔

ذَنْكَسٌ - فین بیٹیہ: گھر میں بھپ کے بیٹھا اور لوگوں کی ضروریات کے لیے نہ لگانا۔

ذَنْبَانُ ذَنْبًا وَ ذَنْبَانُ لِلشَّيْءِ وَ مِثْلُهُ وَ إِلَيْهِ: کسی چیز کے قریب ہونا۔ صفت (ذَان) جِ ذَنْبَانُ: ذَنْبِي يَذْنِي ذَنْبًا وَ ذَنْبَانَةً: گھٹیا ہونا۔ ردی ہونا۔

صفت (ذَنْبِي) جِ أَدْنِيَاءُ: ذَنْبَاهُ تَدْنِيَّةٌ: قریب کرنا۔ ذَنْبِي فِي الأَمْوَالِ: ہر چھوٹے بڑے امر کے پیچھے پڑنا۔
ذَانِي مُدَانَاةٌ - القَيْدُ: بیڑی کو تنگ کرنا۔

بَيْنَ الأَمْوَالِ: قریب قریب کرنا۔
الأَمْوَالُ: نزدیک ہونا۔

أَذْنِي إِذْنَاءً - تنگ زندگی بسر کرنا۔ قریب ہونا۔
قریب کرنا۔ کسی کے قریب کرنا۔ البَسْفُ: پروردہ لگانا۔
تَدْنِي - تمھوڑا تمھوڑا قریب ہونا۔ کما جاتا ہے "بِهَيْدٍ يَتَدْنِي خَيْرٌ مِنْ قَرِيبٍ يَتَعَدُّ" دور کا آدمی جو تمھوڑا تمھوڑا قریب ہو اس قریب سے بہتر ہے جو دور ہو۔

تَدَانِي تَدَانِيًا - القَوْمُ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ تَدَانَتْ إِبِلُهُ: کم ہونا۔
إِذْنِي - قریب ہونا۔

إِسْتَدْنَاهُ - قریب ہونے کو کہنا۔
الدَّانَاةُ - مہ - قرابت۔ کما جاتا ہے "بَيْنَهُمَا دَنَاوَةٌ" ان دونوں کے درمیان قرابت و رشتہ داری ہے۔

الأَذْنِي - ذَنْبِي كَأَسْمِ تَفْضِيلٍ - جِ أَدَانٍ وَ أَدْنُونٍ: مؤنث ذنباً۔ جِ ذَنْبِي - الأَذْنُونُ: نسب کے لحاظ سے قریبی رشتہ دار لوگ۔

الدَّنِيَا - موجودہ زندگی۔ جِ ذَنْبِي: نسبت کے لیے (ذَنْبِي وَ ذَنْبِيَا وَ ذَنْبِي) اور کما جاتا ہے "هُوَ

(ذَنْبِي) جِ أَدْنَانِ وَ مَدْنَانِيسَ -

ذَنْبَسَةٌ - میل کرنا۔ اور کما جاتا ہے "ذَنْبَسَةٌ مَسْوُؤَةٌ خُلِقَ بِهَا" اس کی بد خلقی نے اس کو عیب دار کر دیا۔
تَدَنْبَسُ - میل ہونا۔

الدَّنَسُ - مہ - میل پھیل۔ جِ أَدْنَانِيسَ -
العَدْنَانِيسَ - عیوب کنڈی جگہیں۔ کما جاتا ہے "هُوَ يَتَصَوَّرُ مِنَ الأَدْنَانِيسَ وَ المَدْنَانِيسَ" وہ عیوب سے بچتا ہے۔

ذَنْعٌ (ف) ذَنْعًا وَ ذَنْعَةٌ - کینہ و بے خبر ہونا۔ صفت (ذَالِعٌ وَ ذَنْعٌ وَ ذَنْعٌ وَ ذَنْعٌ وَ ذَنْعَةٌ) ذَنْعٌ - ذلیل ہونا۔ کینہ ہونا۔ بھوکا ہونا۔ خواہش مند ہونا۔

أَذْنَعٌ - علماء کے طریقہ کی پیروی کرنا۔
رَجُلٌ ذَنْعَةٌ - بے خبر و بے نیش آدمی۔ کما جاتا ہے "هُوَ مِنْ ذَنْعِ النَّاسِ" وہ کینے لوگوں میں سے ہے۔

ذَيْفٌ (س) ذَيْفًا - العَرِيضُ: بیماری کا پیرہ جانا اور قریب المرگ ہونا۔

الشمسُ: آفتاب کا زور ہونا اور ڈوبنے کے قریب ہونا۔ ه المَرْضِيُّ: بیماری کا تیز ہو جانا۔ الشَّيْءُ: قریب کرنا۔

الدَّنْفُ - مہ - مرض دائمی۔ بیش کا پتار۔ کما جاتا ہے "زَجَلٌ ذَنْفٌ وَ إِمْرَأَةٌ ذَنْفٌ وَ هُمُ ذَنْفٌ" اور کما جاتا ہے۔ "كَذَاتِ الشَّمْسِ تَكُونُ ذَنْفًا" آفتاب ڈوبنے کے قریب ہے۔

الدَّنْفُ - مرض لازم والا۔ جِ أَدْنَانِيسَ مَوْثٌ ذَنْبَةٌ جِ ذَنْبَاتٍ -

الدَّنْفِيسُ - بیوقوف عورت۔
الدَّنَانِيسُ - بد خو۔

ذَنْفَسٌ - زوریدہ نگاہ سے دیکھنا۔
الدَّنْفِيسَةُ - بی عورت۔

ذَنْقٌ (ن) ذَنْقًا - باریک امور نالے کا حریس ہونا۔ صفت (ذَنْقِي) جِ ذَنْقِيٌّ -

ذَنْقٌ - الوجهُ: غم یا مرض سے کمزور ہونا۔
للمَّوْتِ: قریب المرگ ہونا۔

العَيْنُ: آنکھ کا اندر دھسن جانا۔ الشَّيْءُ: پوری طرح سے لینا۔ الشمسُ: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الوجهُ: مرنا۔

الدَّخَّةُ: رِيَاءٌ - الدَّوَّاحُ: بَسْتُ بَلَدٍ - دَاخَ (ن) دَوَّخًا: زَلِيلَ هُوَا - فَرُوْتِي كَرْنَا _____ الْبِلَادَ: غَالِبَ هُوَا - دَوَّخَ الْبِلَادَ: وَادَّخَّحَهَا: شَرَوْنِ مِثْلَ كَرْنَا - الْبِلَادَ: غَالِبَ هُوَا _____ الْوَجْهَ: كَسَى كُوْذِيْلَ كَرْنَا _____ الْوَجْخَ رَاسَهُ: وَرَدَّ كَاسِرُكَوْ كَجَرَا وَرِيَاءٌ - اَدَّخَّحَ اِدَّخَّحَةً: زَلِيلَ كَرْنَا - الدَّوَّخَةُ: سِرَاجٌ كَجَرَا (كَلِمَةٌ عَامِيَةٌ هِيَ فَصِيحٌ ذُوْارٌ وَهَذَا هِيَ) - لَيْلٌ (ذَابِيحٌ) تَارِيكَ رَاتٍ - الدَّوَّخَلَةُ وَالدَّوَّخَلَةُ: كَجَوْرَ كَرْنَا كِي وَجُوْنِ كِي زَنْبِيْلٌ - دَاوْدِيْدَا دُوْدَا وَدُوْدٌ وَدِيْدُوْ اِذَا دَا اِذَا دَا اِذَا اِذَا الطَّعَامَ: كَلِمَةٌ مِثْلُ كَرْنَا - صَفْتٌ (مَدْرُوْدٌ) - الدَّوْدَةُ: كِيْرَاجٌ ذُوْدُوْ دِيْدَانٌ - دُوْدَةُ الْقَرَى: رِيْثُمُ كَا كِيْرَا - الدَّوَادُ: جَمُوْعٌ كِيْرَءِيْ - تِيْرُوْرِمُرُوْ - الدَّوْيَدُ: دُوْدِيْ كِيْ تَصْفِيْرٌ (جَمُوْعًا كِيْرَا) - الدَّوْدَاةُ: جَمُوْعٌ دُوْدِيْ - الدِّيْدَاءُ: تِيْرُوْرُوْ - الدَّوَادِرُوْ اِدَارُوْ الدَّوْيَدَارُ: كَلَابٌ - نَشِيْ (جَدِيْدٌ) دَاَرُ (ن) دُوْرًا وَدُوْرًا: كَجَمُوْمَا - كَجَرَا كَلِمَةٌ _____ الدَّهْرُ: الْاَلْبَانِيَّتَا _____ بِالشَّيْءِ وَعَلَيْهِ وَحَوْلَهُ: كَرْمُوْمَا - دِيْرُ يَه: كَجَرَا - سِرَاجٌ كَجَرَا لَاقٍ هُوَا - دُوْرَةُ كُوْلُ بِنَا _____ هُوَ يَه: كَجَمْمَا - دَاوْرَهُ مَدَاوْرَةً وَدُوْرَا: كَسَى كَسَا تَه كَجَمُوْمَا _____ عَلَيِ الْاَمُوْرُ: كَسَى كَامٌ كُوْلُ اَجَامٍ وَرِيَاءٌ _____ الْاَمُوْرُ: كَامٌ كُوْلُ اَجَامٍ وَرِيَاءٌ كِي لِيْهِ غُوْرُ كَرْنَا - اِذَا رَ اِذَا رَ: الشَّيْءُ: كَجَمُوْمَا _____ هُوَ يَه: كَجَمْمَا _____ الْاَمُوْرُ: اَمَلَهُ كَرْنَا - هُوَ عَلَيْهِ: لَازِمٌ كَرْنَا كَارَاوَهُ كَرْنَا - هُوَ عَنَ حَقِيْقَةٍ: حَقٌّ كَجَمُوْرِيْنِيْ كِي خَوَاشِ كَرْنَا - اِدِيْرُ يَه: كَجَرَا - سِرَاجٌ كَجَرَا لَاقٍ هُوَا -	الدَّهْرُ: زَمَانُ كِيْ خَوَارِثٌ - الدَّهْيُ: كَهْمٌ - تِيْرُفَمُجٌ اَذْيَاوُ وَدُهْوَاءٌ - الدَّوُّ: كَجَلُّ - دَاةٌ يَدَاةٌ دَاةٌ وَدُوْدَةٌ اَوْ اِدُوْوَاةٌ اِذَا دَاةٌ وَادَاةٌ - يَارَ هُوَا - صَفْتٌ (دَاةٌ وَمَدِيْنَةٌ) - اِدُوْوَاةٌ: مَرَضٌ لَاقٍ هُوَا - الدَّاءُ: يَارِي - جَ اِدُوْوَاةٌ - دَاةٌ الدَّنْبُ: كَجَمُوْكَ - دَاةٌ الدَّغْلُبُ: اِيْكَ يَارِي جَسَّ سِرَ كِيْ بَالِ كَر جَا تِيْ هِيْ اُوْرُ اسَ كُوْلِ اَلْمَاةِ: بَهِيْ كَتِيْ اُوْرُ اَرُ كَر كَصَالٌ بَهِيْ كَرْنَا كِي كُوْ اسَ كُوْ "دَاةٌ الْحَيَاةُ" كَتِيْ هِيْ - دَاةٌ الْفَيْلُ لَمْلُ يَارِي: كَتِيْ هِيْ "بِهَ دَاةٌ الطَّبِيْبِيْ" يَمْنِيْ اسَ كُوْنِيْ مَرَضٌ نَمِيْ - وَ "فَلَانٌ مَيْتٌ الدَّاءُ" يَمْنِيْ فُلَانٌ مَهْضٌ اِيْسَا كِي كَر كُوْنِيْ مَهْضٌ اسَ سِرَ سَلُوْ كِي كَر تُوْهَ اسَ سِيْنِيْ نَمِيْ كَرْنَا - الدَّهْيُ: يَارُ - دَاَبُ (ن) دُوْدَا: كَشَشُ كَرْنَا - مَشَقَّتٌ اَخْمَانَا - الدَّوْبَلُ: سُوْرِيَا سُوْرِيَا سُوْرَا كَجِيْرُ - كَرْمِيْ كَجِيْرُ - سِيَا سِيْفِيْدِيْ مَلَا هُوَا: كَجِيْرَا - لَوْ سُوْرِيَا - جَ دُوْوَابِلُ - دَاَبُ (ن) دُوْدَا: تُوْرَا - كَلَسْتُ وَرِيَاءٌ - دَاَجُ (ن) دُوْدَجَا: خَدْمَتُ كَرْنَا - الدَّاجَةُ: كَلَسْتُ كَرْنَا - جَمُوْمِيْ جَمُوْمِيْ جَا تِيْ - كَمَا جَا تِيْ "مَتَا تَرَكْتُ حَاجَةَ وَلاَ دَاَجَةَ" مِيْ نِيْ جَمُوْمِيْ بِيْ كُوْنِيْ حَاجَتُ نَمِيْ جَمُوْرِيْ - اُوْرِيَا "دَاَجَةُ" اسَ قَوْلُ مِيْ حَاجَتُ كَا تَالِجٌ هِيَ - الدَّوَّاجُ وَالدَّوَّاجُ: لَمَالٌ - دَاَجُ (ن) دُوْدَجَا: الْبَطْنُ: بِيْتٌ كَا جَمُوْمَا اُوْرُ لَمَالًا _____ الشَّجَرَةُ: بِيْزَا هُوَا - صَفْتٌ (ذَابِيحَةٌ) جَ دُوْوَابِيْحُ - دُوْوَحُ الْمَالُ: كَجِيْرَا _____ الْبَطْنُ: بِيْتٌ كَا جَمُوْمَا اُوْرُ لَمَالًا - تَدُوْوَحُ وَالدَّخَ: الْبَطْنُ: بِيْتٌ كَا جَمُوْمَا اُوْرُ لَمَالًا - اِذَا دَخَ الشَّيْءُ: كَسَى كِيْرَ كَادَمَتُ كِي سَا تَه كَجَمُوْمَا - كَجِيْرَا - الدَّوْحَةُ: بِيْزَا كَجَمُوْمَا اُوْرُ رَحْمَتُ - بِيْزَا سَابِيْنُ جَ - دُوْوَحُ جَمُوْمَا اُوْرُ الدَّوْحُ: بِيْزَا كَلِمَةٌ - الدَّح: كَجَمُوْمَا كَمَشَقَّتُ كَمَلُوْمَا - رِيْثُمُ كَا كَلِمَةٌ هُوَا - كَلَمٌ -	دَهْنُ: الشَّيْءُ: كَجَلُّ لَمَالًا - تَرَكَا - تَدَهْنُ وَادَهْنُ: كَجَلُّ لَمَالًا - اَلدَّهْنُ: سَهَ اَتِيْ بَارَشُ جُوْرِيْنِ كُوْ تَرَكُوْرِيْ - الدَّهْنُ: دَهْنُ الشَّيْءِ: بَمَعْنِيْ تَرَكَا كَالِاسِمِ - دُهْنُ الشَّيْءِ: كَسَى كَجَمُوْمَا لَمَالًا - جَ اَذَهَانٌ وَدَهَانٌ - الدَّهْنَةُ: كَجَمُوْمَا لَمَالًا - كَمَا جَا تِيْ "هُوَ طَيِّبٌ الدَّهْنَةُ" وَهِيَ جَمُوْمَا خُوْشِيْبُوْ اُوْرُ لَمَالًا - الدَّهْنَاءُ: يَابَانٌ - سِرَ رَمَلُ كِي اِيْكَ كَلِمَاتُ جَسَّ كِيْ تِيْ هِيْ سِرَ كُوْ بَاغْتُ وَرِيَاءٌ هِيْ - الدَّهَانُ: كَجَلُّ لَمَالًا وَلا - كَجَلُّ يَمِيْنِيْ وَلا - الدَّهَانُ: سِرَ كَجَمُوْمَا - وَهِيَ رُوْمَنُ جَسَّ كُوْ دِيْوَارٌ وَغِيْرُهُوْ لَمَالًا جَا تِيْ - كَجَمُوْمَا كِي كَجَمُوْمَا - الدَّهِيْنُ: كَمٌ دُوْدَهُ دَالِيْ اُوْمُنِيْ - كَجَلُّ لَمَالًا هُوَا - كَجَمُوْمَا - الدَّهْنُ: پَانِيْ كِيْ جَمُوْمَا كِي كَجَمُوْمَا - كَجَلُّ كِي شِيْءِيْ جَ مَدَا هُنَ - دَهْوَرُ: الشَّيْءُ: كَرْمِيْ مِيْ كَجَمُوْمَا - كَمَا جَا تِيْ "دَهْوَرُ الْكَلَامُ" وَهِيَ كَلَامٌ كُوْ اِيْكَ وَوَسْرِيْ كِي كِيْ لَمَالًا - وَ "دَهْوَرُ الْمَقَامُ" اسَ لَمَالًا كُوْ كُوْلُ كِيَا اُوْرُ لَمَالًا كَرْنَا - دَهْوَرُ الْحَاظُ: اسَ لَمَالًا دِيْوَارٌ وَكَلَمَتُ كَرْمُوْمَا - تَدَهْوَرُ: كَرْمِيْ مِيْ كَرْنَا - تَدَهْوَرُ اللَّيْلِ: كَجَمُوْمَا - دَهْيُ (ف) دَهْيًا وَدَهْيُ: فُلَانًا: جَالِيْ كِي كَرْنَا - مِيْ نَمِيْ كَرْنَا - مِيْ نَمِيْ كَرْنَا - اَفْتُ وَبَلَا يَمِيْنِيْ - دَهْيُ (س) دَهْيًا وَدَهْيًا وَدَهْيًا وَدَهْيًا: جَالِيْ كِي هُوَا - جَالِيْ كِي سِرَ كَرْنَا - صَفْتٌ (ذَابِيحَةٌ) جَ دَهْوَاةُ (دِهْ جَ دَاهُوْنُ - دَاهِيَةٌ جَ دَاهُوْ اسَ مِيْ تَاةٌ مَبَالِغِيْ هِيَ - تَم كَتِيْ هُوَا "رَجُلٌ دَاهِيَةٌ وَامْرَاَةٌ دَاهِيَةٌ" جَالِيْ كِي مَرُوْ جَالِيْ كَرْمُوْمَا - تَدَهْيُ: جَالِيْ كَرْمُوْمَا - قَدَاهِيْ: سِرَ كَلَمَتُ جَالِيْ كَرْمُوْمَا - الدَّهَاءُ: زِيْرِيْ - هُوْ شِيَارِيْ - كَرْمُوْمَا - الدَّاهِيَةُ: بَرِيْ بَاتُ - مَعِيْبَتُ - بِيْزَا مَعَامَلَةُ جَ دَاهُوْ - دَاهِيَةٌ دَهْيًا: خَدْمَتُ مَعِيْبَتُ - وَدَاهُوْ
---	--	---

ذَاكَ (ن) ذَوَاتًا وَمَذَاجًا. القَوْمُ : مغرب ہوتا۔ جیس جس میں پڑتا۔ پیار ہونا۔ الشَّيْءُ : کوٹا۔ رکڑتا۔ پینا۔ المَزَاةُ : جماع کرنا۔ العَطْبُ : سوگنا۔ قَدَاوِكَ : القَوْمُ : لڑائی جھگڑے میں باہم ٹک ہوتا۔

الذَّوْتَةُ وَالذَّوْتَةُ : جھگڑا۔ لڑائی۔ الجذْوَكُ وَالجذَاكُ : خوشبو پینے کا پتھرا وہ پتھر جس پر خوشبو پھینا جائے۔

ذَال (ن) ذَوْلَةٌ : الزمان : ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پلٹنا۔ کما جاتا ہے "ذَالَتْ لَهُ الذَّوْلَةُ" دولت اس کیلئے الٹ پلٹ گئی۔ الزَّجْلُ لَهَا مَشِيهٌ : باوجود چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے کے تیز چلنا۔ بَطْنُهُ : پیٹ کا ٹکٹا۔ الْكُزْبُ : پکڑے کا پوسیدہ ہونا۔ پراتا ہونا۔ ذَالِقُو ذَوْلَانٍ : مشہور ہونا۔

ذَاوِلٌ مَذَاوِلَةٌ : اَللّٰهُ اَلْاَيَّامُ بَيْنَ النَّاسِ : اللہ تعالیٰ کا زمانے کو لوگوں کے درمیان الٹنا پلٹنا کہ کبھی ایک جماعت کے لیے ہو کبھی دوسری کے لیے۔ الْمَاشِيَةُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ : کبھی ایک قدم پر کھڑا ہونا اور کبھی دوسرے پر۔

اَذَانٌ اِذَالَةٌ : الشَّيْءُ : باری باری ایک کے بعد دوسرے کو دنا۔ اللّٰهُ يَنْبِيْ فُلَانٍ مِنْ عَذْوِهِمْ : غلبہ دلانا۔ فتح مند کرنا۔ اَللّٰهُ زَيْدًا مِنْ عَشْرَةٍ : حکومت منتقل کرنا۔

قَدَاوَلْتُهُ : الاِثْمِي : ہاتھوں ہاتھ لیتا۔ باری باری لیتا۔ اور اسی سے محاورہ ہے۔ "قَدَاوَلُوا الشَّيْءَ يَتَشَهُمُ" انہوں نے چیز کو باری باری لیا۔ اِنْدَالٌ : بَطْنُهُ : لنگ کر زمین تک پہنچنا۔

صَاهِي بَطْنِهِ : خارج ہونا۔ الشَّيْءُ : لنگہ۔

القَوْمُ : ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔

اِسْتَدَالُ - الاَيَّامُ : زمانہ کو اپنے موافق کر لینا۔ الذَّوْلَةُ : سہ۔ (و الذَّوْلَةُ) ایسی چیز جو کبھی کسی کے لیے اور کبھی کسی کیلئے ہو اسی وجہ سے مال اور غلبہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ والذَّوْلَةُ عِنْدَ اَزْيَابِ السِّيَاسَةِ : بادشاہ و وزراء۔ حکومت۔

گورنٹ۔ ریاست۔ ج ذَوْلٌ وَذَوْلٌ اور کما جاتا ہے "مَكَانَتْ لَنَا عَلَيْهِمُ الذَّوْلَةُ" ہم کو ان پر غلبہ حاصل ہوا۔ "وَالذَّهْوُ ذَوْلٌ" زمانہ کو قرار میں ایک حالت پر نہیں رہتا۔

الذَّالَةُ : شرت۔ ج ذَالٌ : الذَّوْلَةُ : معیبت۔ ج ذَوْلَاتٌ :

الِإِذَالَةُ : غلبہ۔ کما جاتا ہے "ذَوَّالِيكَ" یعنی کیے بعد دیگرے۔ مطلب یہ ہے کہ اے فلاں کام کو کیے بعد دیگرے کر۔ اور اس سے مراد تاکید ہوتی ہے۔ اور کما جاتا ہے "فَعَلْنَا ذَلِكِ ذَوَّالِيكَ" ہم نے اس کو باری باری کیا۔

الذَّوْلِيخُ : خانہ۔ وحشی جانوروں کا بھٹ۔ الذَّوْلِيصِيُّ : ذریعہ۔

الذَّوْلِيخُ : کشادہ و نرم راستہ۔ الذَّوْلَعَةُ : گوٹکا۔

ذَامٌ يَذُوْمُ وَيَذَامُ ذَوْمًا وَذَوَامًا وَذَيْمُومَةٌ : ہمیشہ رہتا۔ ثابت رہتا۔

الشَّيْءُ : گھبرا۔ گھومتا۔ الذَّلْوُ : بھر جانا۔ ذَيْمَةٌ يَذُوْمُ : یعنی ماضی کسور العین اور مضارع مضموم العین نادر ہے۔ "ذَاوَامٌ" افعال ناقصہ میں سے ہے جیسے "لا يَنْهَوِي الْإِحْتِلَاحُ عَادَا مَ فُلَانٍ حَاكِمًا" یعنی اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک فلاں شخص حاکم ہے (

ذَيْمًا السَّمَاءُ : لگا کر بارش۔ ذَيْمٌ بِهِ وَأَذَيْمٌ بِهِ : سر پکڑنا۔

ذَوِّمْتُ ذَوِّمْتُهَا : الشَّمْسُ : وسط آسمان میں گھومتا۔ العَصْفَرُ شَارِبُهَا : سر پکڑنا دنا۔

عَيْشُهُ : حلقہ میں پھرتا۔ الشَّيْءُ : تر کرنا۔ العِمَامَةُ : سر کے گرد لپیٹنا۔

الْقَطَائِرُ : فضا میں پکڑ لگانا۔ الزَّعْفَرَانُ لَهَا الْمَاءُ : رگڑ کر گھستا۔ القَيْدَرُ : گھڑے پانی کا چھینٹا دے کر جوش گھڑا کرنا۔ بِالذَّوَامَةِ : لڑے کیلئے (و ذَيْمَتِ) السَّمَاءُ : لگا کر بارش۔

ذَاوَمَ : عَلَيَّ الْأَمْرُ : جھگی کرنا۔ الشَّيْءُ : سہلت سے کرنا۔ جھگی طلب کرنا۔

أَذَامٌ إِذَامَةٌ : الشَّيْءُ : ہمیشہ کرنا۔ الْأَمْرُ : جھگی کرنا۔ أَذَاهَتِ السَّمَاءُ : لگا کر بارش۔ الذَّلْوُ :

بھرتا۔ القَيْدَرُ : گھڑے پانی کا چھینٹا دے کر جوش گھڑا کرنا۔ جوش گھڑا کرنا۔ تَذْوَمٌ : انتظار کرنا۔ اِسْتِدَامٌ اِسْتِدَامَةٌ : الشَّيْءُ : سہلت سے کرنا۔ جھگی طلب کرنا۔

الذَّوَامُ : سہ۔ ہمیشہ۔ کجگوری کی مانند ایک درخت۔ بڑے بڑے درخت۔ الذَّوَامُ : سر پکڑنا۔ الذَّوْمَانُ : پرندے کا لٹلانا۔

الذَّيْمَةُ : لگا کر بارش جس میں چمک و گرج نہ ہو۔ ج ذَيْمٌ وَذَيْمٌ : کما جاتا ہے "مَنْظَرُ تَهْمِ السَّمَاءِ يَذِيْمٌ وَيَذِيْمٌ" آسمان نے ان پر لگا کر بارش کی۔

الذَّوَامَةُ : لوج ذَوَامٌ : الذَّيْمُومُ : ہمیشہ۔ الذَّمَامُ وَالذَّمَامَةُ : شراب۔ الذَّمَامُ : لگا کر بارش۔ الغلبيم : جس کی ناک سے خون جاری ہو۔ الغلبيم : وہ جگہ جہاں لگا کر بارش ہو۔ کما جاتا ہے "مَكَانٌ مَلْبِيْمٌ وَأَرْضٌ مَلْبِيْمَةٌ" لگا کر بارش وہی جگہ یا زمین۔

الْمَذْوَمُ وَالْمَذْوَامُ : ڈولی۔ کھنڈیر۔ الذَّوْمَصُ : لہے کا خرد۔ ذَوْعَلٌ ذَوْعَلَةٌ : بَيْنَ الْقَوْمِ : اصلاح کرنا۔ ذَانٌ يَذُوْنُ ذَوْنًا : گھٹیا ہونا۔ کمزور ہونا۔ ذَوْنٌ : الذَّيْوَانُ : ترتیب دینا۔ ہ۔ رجسٹر میں نام لکھنا۔ اَذِيْنٌ : گھٹیا ہونا۔ کمزور ہونا۔ تَذْوِنٌ : پورے طریقے سے مستحق ہونا۔ ذَوْنٌ : نیچے۔ کما جاتا ہے "هُوَ ذَوْنٌ" وہ اس سے مرتبہ میں کم ہے۔ آگے۔ کما جاتا ہے "مَضِي ذُوْنُهُ" وہ اس کے آگے چلا۔ و بمعنی فیر۔ کما جاتا ہے۔ "مِنْ ذَوْنِ أَنْ يَفْعَلَ" بغیر کرنے کے۔ الذَّوْنُ : گھٹیا۔ حقیر۔ مرتبہ جیسے "شَيْءٌ ذَوْنٌ" گھٹیا چیز۔ اور کبھی شریف کے معنی میں آتا ہے۔ اور کما

بھرتا۔ القَيْدَرُ : گھڑے پانی کا چھینٹا دے کر جوش گھڑا کرنا۔ تَذْوَمٌ : انتظار کرنا۔ اِسْتِدَامٌ اِسْتِدَامَةٌ : الشَّيْءُ : سہلت سے کرنا۔ جھگی طلب کرنا۔ القَطَائِرُ : فضا میں پکڑ لگانا۔ غَرِيْمَةٌ : ذی کرنا۔

الذَّائِمُ : قاتلہ ذَائِمٌ : گھبرا ہوا پانی۔ الذَّمَامُ : سندر۔ الذَّوْمُ : سہ۔ ہمیشہ۔ کجگوری کی مانند ایک درخت۔ بڑے بڑے درخت۔ الذَّوَامُ : سر پکڑنا۔

الذَّوْمَانُ : پرندے کا لٹلانا۔ الذَّيْمَةُ : لگا کر بارش جس میں چمک و گرج نہ ہو۔ ج ذَيْمٌ وَذَيْمٌ : کما جاتا ہے "مَنْظَرُ تَهْمِ السَّمَاءِ يَذِيْمٌ وَيَذِيْمٌ" آسمان نے ان پر لگا کر بارش کی۔

الذَّوَامَةُ : لوج ذَوَامٌ : الذَّيْمُومُ : ہمیشہ۔ الذَّمَامُ وَالذَّمَامَةُ : شراب۔ الذَّمَامُ : لگا کر بارش۔

الغلبيم : جس کی ناک سے خون جاری ہو۔ الغلبيم : وہ جگہ جہاں لگا کر بارش ہو۔ کما جاتا ہے "مَكَانٌ مَلْبِيْمٌ وَأَرْضٌ مَلْبِيْمَةٌ" لگا کر بارش وہی جگہ یا زمین۔

المذوم والمذوام : ڈولی۔ کھنڈیر۔ الذومص : لہے کا خرد۔ ذوعل ذوعلة : بين القوم : اصلاح کرنا۔ ذان يذون ذونا : گھٹیا ہونا۔ کمزور ہونا۔ ذون : الذويان : ترتيب دينا۔ ہ۔ رجسٹر میں نام لکھنا۔ اذين : گھٹیا ہونا۔ کمزور ہونا۔ تذون : پورے طریقے سے مستحق ہونا۔ ذون : نیچے۔ کما جاتا ہے "هُوَ ذونٌ" وہ اس سے مرتبہ میں کم ہے۔ آگے۔ کما جاتا ہے "مَضِي ذونُهُ" وہ اس کے آگے چلا۔ و بمعنی فیر۔ کما جاتا ہے۔ "مِنْ ذونِ أَنْ يَفْعَلَ" بغیر کرنے کے۔ الذون : گھٹیا۔ حقیر۔ مرتبہ جیسے "شَيْءٌ ذونٌ" گھٹیا چیز۔ اور کبھی شریف کے معنی میں آتا ہے۔ اور کما

بھرتا۔ القَيْدَرُ : گھڑے پانی کا چھینٹا دے کر جوش گھڑا کرنا۔ تَذْوَمٌ : انتظار کرنا۔ اِسْتِدَامٌ اِسْتِدَامَةٌ : الشَّيْءُ : سہلت سے کرنا۔ جھگی طلب کرنا۔ القَطَائِرُ : فضا میں پکڑ لگانا۔ غَرِيْمَةٌ : ذی کرنا۔

الذَّائِمُ : قاتلہ ذَائِمٌ : گھبرا ہوا پانی۔ الذَّمَامُ : سندر۔ الذَّوْمُ : سہ۔ ہمیشہ۔ کجگوری کی مانند ایک درخت۔ بڑے بڑے درخت۔ الذَّوَامُ : سر پکڑنا۔

الذَّوْمَانُ : پرندے کا لٹلانا۔ الذَّيْمَةُ : لگا کر بارش جس میں چمک و گرج نہ ہو۔ ج ذَيْمٌ وَذَيْمٌ : کما جاتا ہے "مَنْظَرُ تَهْمِ السَّمَاءِ يَذِيْمٌ وَيَذِيْمٌ" آسمان نے ان پر لگا کر بارش کی۔

الذَّوَامَةُ : لوج ذَوَامٌ : الذَّيْمُومُ : ہمیشہ۔ الذَّمَامُ وَالذَّمَامَةُ : شراب۔ الذَّمَامُ : لگا کر بارش۔

الغلبيم : جس کی ناک سے خون جاری ہو۔ الغلبيم : وہ جگہ جہاں لگا کر بارش ہو۔ کما جاتا ہے "مَكَانٌ مَلْبِيْمٌ وَأَرْضٌ مَلْبِيْمَةٌ" لگا کر بارش وہی جگہ یا زمین۔

المذوم والمذوام : ڈولی۔ کھنڈیر۔ الذومص : لہے کا خرد۔ ذوعل ذوعلة : بين القوم : اصلاح کرنا۔ ذان يذون ذونا : گھٹیا ہونا۔ کمزور ہونا۔ ذون : الذويان : ترتيب دينا۔ ہ۔ رجسٹر میں نام لکھنا۔ اذين : گھٹیا ہونا۔ کمزور ہونا۔ تذون : پورے طریقے سے مستحق ہونا۔ ذون : نیچے۔ کما جاتا ہے "هُوَ ذونٌ" وہ اس سے مرتبہ میں کم ہے۔ آگے۔ کما جاتا ہے "مَضِي ذونُهُ" وہ اس کے آگے چلا۔ و بمعنی فیر۔ کما جاتا ہے۔ "مِنْ ذونِ أَنْ يَفْعَلَ" بغیر کرنے کے۔ الذون : گھٹیا۔ حقیر۔ مرتبہ جیسے "شَيْءٌ ذونٌ" گھٹیا چیز۔ اور کبھی شریف کے معنی میں آتا ہے۔ اور کما

بھرتا۔ القَيْدَرُ : گھڑے پانی کا چھینٹا دے کر جوش گھڑا کرنا۔ تَذْوَمٌ : انتظار کرنا۔ اِسْتِدَامٌ اِسْتِدَامَةٌ : الشَّيْءُ : سہلت سے کرنا۔ جھگی طلب کرنا۔ القَطَائِرُ : فضا میں پکڑ لگانا۔ غَرِيْمَةٌ : ذی کرنا۔

الذَّائِمُ : قاتلہ ذَائِمٌ : گھبرا ہوا پانی۔ الذَّمَامُ : سندر۔ الذَّوْمُ : سہ۔ ہمیشہ۔ کجگوری کی مانند ایک درخت۔ بڑے بڑے درخت۔ الذَّوَامُ : سر پکڑنا۔

الذَّوْمَانُ : پرندے کا لٹلانا۔ الذَّيْمَةُ : لگا کر بارش جس میں چمک و گرج نہ ہو۔ ج ذَيْمٌ وَذَيْمٌ : کما جاتا ہے "مَنْظَرُ تَهْمِ السَّمَاءِ يَذِيْمٌ وَيَذِيْمٌ" آسمان نے ان پر لگا کر بارش کی۔

الذَّوَامَةُ : لوج ذَوَامٌ : الذَّيْمُومُ : ہمیشہ۔ الذَّمَامُ وَالذَّمَامَةُ : شراب۔ الذَّمَامُ : لگا کر بارش۔

الغلبيم : جس کی ناک سے خون جاری ہو۔ الغلبيم : وہ جگہ جہاں لگا کر بارش ہو۔ کما جاتا ہے "مَكَانٌ مَلْبِيْمٌ وَأَرْضٌ مَلْبِيْمَةٌ" لگا کر بارش وہی جگہ یا زمین۔

المذوم والمذوام : ڈولی۔ کھنڈیر۔ الذومص : لہے کا خرد۔ ذوعل ذوعلة : بين القوم : اصلاح کرنا۔ ذان يذون ذونا : گھٹیا ہونا۔ کمزور ہونا۔ ذون : الذويان : ترتيب دينا۔ ہ۔ رجسٹر میں نام لکھنا۔ اذين : گھٹیا ہونا۔ کمزور ہونا۔ تذون : پورے طریقے سے مستحق ہونا۔ ذون : نیچے۔ کما جاتا ہے "هُوَ ذونٌ" وہ اس سے مرتبہ میں کم ہے۔ آگے۔ کما جاتا ہے "مَضِي ذونُهُ" وہ اس کے آگے چلا۔ و بمعنی فیر۔ کما جاتا ہے۔ "مِنْ ذونِ أَنْ يَفْعَلَ" بغیر کرنے کے۔ الذون : گھٹیا۔ حقیر۔ مرتبہ جیسے "شَيْءٌ ذونٌ" گھٹیا چیز۔ اور کبھی شریف کے معنی میں آتا ہے۔ اور کما

بھرتا۔ القَيْدَرُ : گھڑے پانی کا چھینٹا دے کر جوش گھڑا کرنا۔ تَذْوَمٌ : انتظار کرنا۔ اِسْتِدَامٌ اِسْتِدَامَةٌ : الشَّيْءُ : سہلت سے کرنا۔ جھگی طلب کرنا۔ القَطَائِرُ : فضا میں پکڑ لگانا۔ غَرِيْمَةٌ : ذی کرنا۔


الذَّائِمُ : قاتلہ ذَائِمٌ : گھبرا ہوا پانی۔ الذَّمَامُ : سندر۔ الذَّوْمُ : سہ۔ ہمیشہ۔ کجگوری کی مانند ایک درخت۔ بڑے بڑے درخت۔ الذَّوَامُ : سر پکڑنا۔

جاتا ہے۔ "حَالُ الْقَوْمِ ذُوْنَ فُلَانٍ" یعنی قوم
فُلَان کے اور اس کے مطلب کے درمیان
حائل ہوگئی۔
ذُوْنِكَ اسم فعل بمعنى قد یعنی لو۔ کہا جاتا ہے
"ذُوْنِكَ زَيْدًا" یعنی زید کو پکڑو۔
الذَّيْوَانُ والذَّيْوَانُ مجموعہ کتب۔ اشعار و
قصائد کا مجموعہ۔ رجسٹری میں و عقیقہ خواروں یا
فوجیوں کے نام درج ہوں۔ ج ذَوَائِنُ و
ذَيَاوِنُ۔ بھری۔ کونسل۔
ذُوَيْنٌ دون کی تفسیر۔
ذَاةٌ (ان) ذُوْهَا۔ تھیر ہونا۔
تَدْوَةٌ۔ الشَّيْءُ: تھیر ہونا _____ الامر
مشغول ہونا۔ کسی کام میں کس پڑنا۔
ذَوَى۔ جھگڑ میں چلنا۔
الذَّوْءُ والذَّوْءَةُ۔ جھگڑ۔
ذَوَى (س) ذَوَى تیار ہونا _____ صَدْرُهُ:
کینہ رکھنا۔
ذَوَى (ض) ذَوَى۔ مکتناہٹ سنانی رہنا۔
ذَوَى تَدْوِيَةً۔ اللَّبْسُ: دودھ برابر ایک جھلی سی
جنا _____ السَّحَابُ: گرجنا _____
الصَّوْتُ: مکتناہٹ سنانی رہنا۔
ذَاوَى مُدَاوَاةً۔ العَرِيضُ: بیمار کالاج کرنا۔
أَذْوَى أَدْوَاءً۔ مریض کے ساتھ رہنا۔ _____
ہ: تیار ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ يَدْوَى
وَيَدْوَى" فُلَان تیار ڈالنا ہے اور علاج کرتا ہے۔
تَدَاوَى۔ خود پناہ علاج کرنا۔
الذَّوَى۔ ہ۔ بیابا۔ یوقرف۔ اپنی جگہ پر ہمیشہ
رہنے والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ذَوَى وَرَجُلٌ
ذَوَى وَنِسَاءٌ ذَوَى" مذکورہ صفت وادھج سب
کیلئے لفظ واحد ہی ہے اس لیے کہ اصل میں یہ
مصدر ہے۔
الذَّوَاةُ۔ دوات۔ ج ذَوَى و ذَوَى و ذَوَى
و ذَوَاتُ۔ انگریز و غیرہ کا چھلکا۔
الذَّوَايَةُ والذَّوَايَةُ۔ چھری یا باریک جھلی سی جو
دودھ وغیرہ پر ہو جائے۔ الذَّوَايَةُ: دانتوں کی
زردی۔
الذَّوَى۔ مریض۔ خراب بیہوش والا۔ یوقرف۔
اپنی جگہ پر ہمیشہ رہنے والا۔

الذَّوَى۔ آواز۔ ہوا ن سناہٹ۔ کبھی کی
جھجھٹاہٹ۔ پرندہ کی پھڑپھڑاہٹ۔ اور بعضوں کے
نزدیک بادل کے گرج کے لیے مخصوص ہے۔ کہا
جاتا ہے "مَالِي الذَّارِ ذَوَى و ذَوَى و ذَوَى"
یعنی گھر میں کوئی نہیں۔
مَكَانٌ ذَوَى: محنت کے لیے ناموافق۔
الذَّيْوُذُ۔ روسنی کپڑا۔ ج ذَابِنْدُ ذَيَابِنْدُ
ذَاتُ يَدَيْنِ ذَيْنَا۔ نرم و آسان ہونا۔
ذَيْنَةٌ۔ نرم کرنا۔ ذَيْنَةُ الذَّهْرُ: جہ کار بنانا۔
طَرِيقٌ مَدْبُتٌ۔ ہال راستہ۔
ذَا جَ يَدَيْنِجَ ذَيْبَاوُ ذَيْبَاوُ۔ تھوڑا چلنا۔
الذَّيْبَانُ۔ ٹڈی دل۔
ذَاخٌ (ض) ذَيْبَاوُ۔ نرم ہونا۔
ذَيْبَاوُ۔ نرم کرنا۔
الذَّيْبُخُ۔ خوشہ خراب۔ ج ذَيْبَاوُ۔
الذَّيْبَانُ والذَّيْبَانُ۔ عادت۔
الذَّيْبُورُ۔ راہیوں اور نگوں کے رہنے کی جگہ۔ ج
أَذْيُورَةٌ و اذْيَارٌ و ذْيُورَةٌ۔ اور نسبت کے لیے
خلاف قیاس (ذَيْوَانِي)
الذَّيْبَارُ۔ دیروالا۔ گھر میں رہنے والا۔
الذَّيْبُجُ۔ گھوڑا جس کے سر سے لے کر دم تک
سیاہ گھیر ہو۔
الذَّيْبُسُ۔ پستان۔
الذَّيْبُسُغُ۔ مضبوط اونٹنی۔
الذَّيْبُسُقُ۔ چاندی کا خوان۔ دور کار راستہ۔ چاندی
کاماف زیور۔
الذَّيْبُسْمُ۔ لومڑی۔ لومڑی یا بھیرے کا بچہ جو کتیا
سے ہو۔ ریچھ یا ریچھ کا بچہ۔ بھڑ کا بچہ۔ تاریکی۔
سیاہی۔
الذَّيْبُسْمَةُ۔ جیوٹی۔
الذَّيْبُسُ۔ مرغ۔
ذَا صَ يَدَيْنِصَ ذَيْبَاوُ۔ ٹیڑھا ہونا _____ عَنِ
الطَّرِيقِ: ہٹ جانا۔ ذَا صَبَ الْعَدَّةُ بَيْنَ الْجِلْدِ
وَاللَّحْمِ: غمزد کار ہانے سے اودھرا دھر ہونا۔
ذَا صَ (ض) ذَيْبَاوُ۔ لڑائی سے بھاگنا۔ کینہ ہونا
_____ عَنِ الطَّرِيقِ: ہٹ جانا۔ کراہنا۔
إِنْدَا صَ۔ ہاتھ سے پھسل جانا۔
بِالشَّيْءِ عَلَى فُلَانٍ: ہاتھ لگانا۔

الذَّائِصُ۔ قا۔ پھورج ذَا صَبَ۔ کسی چیز کے گرد
پکر لگانے والا۔
الذَّيْصُ۔ مضبوط ٹھنڈے والا۔
الذَّيْصُ۔ غوطہ لگانے کی جگہ۔
ذَا قَهَ يَدَيْنَهُ ذَيْنَا۔ اکھیرنے کیلئے ٹیڑھا کرنا۔
الذَّيْبُكُ۔ مرغ۔ ج ذَيْبُوكَ و أذْيَاكَ و دَيْبَاكَةَ۔
يَبْتَضَةُ الذَّيْبُكُ: اس چیز کیلئے مثال کے طور پر
بولتے ہیں جو صرف ایک ہی بار ہو۔ الذَّيْبُكُ: بڑا
مرہاں۔ موسم بہار۔
أَرْضٌ (مَدَاكَةٌ و مَدَاكَةٌ و مَدَاكَةٌ) بہت
مرغوں والی زمین۔
ذَيْبُكْسُ۔ الرَّجُلُ لِي يَبْتَهَ: لوگوں کی
ضرورت کے لیے باہر نہ لگانا۔
ذَا نَهَ يَدَيْنَهُ ذَيْنَا۔ قرض رہنا۔ صفت فاعلی
(ذَائِنُ) صفت مفعولی۔ (مَدْيُونُ)
_____ الرَّجُلُ: قرض لینا۔ صفت (ذَائِنُ) _____
فُلَانًا بدل رہنا۔
ذَا نَهَ (ض) ذَيْنَا۔ مالک ہونا۔ غلام بنانا۔ تاپنیدہ
ہات پر آسانا۔ ذیل کرنا۔ حکم رہنا۔ خدمت کرنا۔
بھلائی کرنا۔ ذَانُ الرَّجُلُ: عزیز ہونا۔ ذیل ہونا۔
فرہں برداری کرنا۔ تافرمانی کرنا۔
ذَانُ (ض) ذَيْنَا و ذَيْنَانَةٌ و قَدَّيْنُ۔ بالمعنى
الاسلامية: دین اختیار کرنا۔
ذَيْنَةٌ۔ اپنے دین کے تابع بنانا۔ ذَيْنَةُ الشَّيْءِ:
مالک بنانا۔
ذَائِنَةٌ مَدَايِنَةٌ۔ فیصلہ کیلئے لے جانا۔ قرض کا
محلہ کرنا۔
أَذَانٌ إِذَانَةٌ۔ قرض لینا _____ ہ: قرض رہنا۔
تَدَّيْنُ۔ قرض لینا۔
قَدَائِنُ۔ القوم: ایک دوسرے سے قرض لینا۔
قرض سے خرید و فروخت کرنا۔
إِذَانٌ إِذْيَانًا و اِسْتَدَانٌ اِسْتَدَانَةً۔ قرض لینا۔
إِذَانُ الشَّيْءِ: اودھرا خریدنا۔
الذَّيْنُ۔ قرض۔ کہا جاتا ہے "قَهَضَ ذَيْنَهُ" یعنی
وہ مر گیا۔ ج ذَيْوُنُ و آذْيُنُ۔
الذَّيْنُ۔ ہ۔ حساب۔ اسی سے ہے "يَوْمٌ
الذَّيْنُ" ملکیت۔ قدرت۔ حکم۔ مذہب۔ ملت۔
حالت۔ عادت۔ سیرت۔ تدبیر۔ تافرمانی۔ گناہ۔

<p>حساب لیا گیا ہو۔ مؤنث مَدِينَةٌ۔ کہا جاتا ہے "الْمَدِينُ مَدِينٌ وَ مَدِينَةٌ" فلاں کیلئے لومڑی غلام ہے۔ الْمَدَانُ - قرض دار۔ (الْمَدِينَانِ) بہت قرض لینے یا دینے والا۔ (مذکر و مؤنث) راج مَدَائِنُ۔</p>	<p>پکڑنے والا۔ الدَيْنَةُ - قرض۔ کہا جاتا ہے "بَغْتُهُ بِدَيْنَةٍ" میں نے اس کے ہاتھ اُدھار لیا۔ قرض داری۔ عادت۔ الدَّيْنُوتَةُ - قضا۔ حساب۔ الدَّيْنَانُ - قاضی۔ غلبہ والا۔ حاکم۔ حساب لینے والا۔ بدلہ دینے والا۔ الْمَدِينُ - غلام۔ بدلہ دیا ہوا۔ وہ شخص جس سے</p>	<p>مجبوری۔ پرہیزگاری۔ قرض داری۔ بدلہ۔ قرض و غلبہ۔ ذلت۔ راج اَدْيَانُ۔ کہا جاتا ہے۔ "قَوْمٌ دِينٌ" قرض داری کرنے والے لوگ۔ المَدِينَةُ - دھاری۔ تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی قرض داری کے تحت میں آئیں۔ ملت و مذہب۔ راج دِيَانَاتُ۔ الدَّيْنُ - دھار۔ دین کو مضبوطی سے</p>
--	--	---



ذَادًا ذَادًا ذَادًا. باز رکھا۔ منع کرنا۔ ہاتھ لٹکائے ہوئے چلنا۔

ذَوْر (س) ذَاوْرًا۔ غھبٹنا کہ ہونا _____ غتھ:

ذُرنا۔ گھبرانا۔ ناک چڑھانا۔ صفت (ذَائِر و ذَائِر) بِالشَيْءِ: کسی چیز کا مادی ہونا۔

(وَذَاءَنَ عَلَيْهِ: دلیری کرنا۔

ذَوْرَت و ذَوْرَتٌ مَذَاءَةٌ زَةٌ۔ اَلْمَرْءَةُ عَلِيٌّ بَغْلِيهَا: عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا۔

صفت (ذَائِر و ذَوْرَتٌ و ذَوْرَتٌ مَذَائِرٌ)

أَذَاوْرَه: غھبٹنا کہ کرنا۔ جرات دلانا۔ برا بھینٹ کرنا۔ آسنا _____ ہ ابلی کڈنا: مجبور کرنا

_____ ہصاحبہ: ورغلانا۔

الذَّوْرَان: مٹی ملا ہوا گوبر جس کو اونٹنی کے تھن پر مل دیتے ہیں تاکہ پختہ دودھ نہ بنے۔

ذَاوْرَةٌ (ذ) ذَاوْرًا: زخ کرنا۔ سخت کھانڈنا کہ زمین باہر نکل پڑے _____ الإناء: برتن گھبرنا۔

الإناء: برتن کا گھرجانا۔

ذَاوْرٌ (ف) ذَاوْرًا: مرنا۔

ذَاوْرٌ عَلَيَّ الْأَيْمِينِ وَذَاوْرُهُ (ف) ذَاوْرًا وَذَاوْرًا وَذَاوْرًا: فوراً مار ڈالنا۔

الذَّوْرُف: دل کا کٹ جانا اور مر جانا۔ صوت (ذَوْرًا) ناکھلی موت۔ سَمَّ ذَوْرًا: زہر قاتل۔

الذَّوْرَان: موت () _____ والذَّوْرَان و الذَّوْرَان و الذَّوْرَان: زہر قاتل۔

ذَاوْرٌ (ف) ذَاوْرًا وَذَاوْرًا: آہستہ آہستہ سے چلنا۔ تَذَاءَلَ: حقیر بنا۔ چھوٹا بنا۔

ذَوْرَالَة: بھیرے کا علم جس _____ ذَوْرَانٌ و ذِيْلَانٌ:

الذَّوْرَان و الذَّوْرَان: بھیرا گیدڑ۔ المذَّالُ: بھلا بھلا کرنا۔

تَذَاءَبَتْ وَتَذَاءَبَتْ الرَّيْحُ عَلَيْهِ: کبھی اُدھر سے کبھی اُدھر سے آنا۔ تَذَاءَبَتْ وَتَذَاءَبَتْ الرَّيْحُ عَلَيْهِ: ہر

جانب سے چلنا _____ هالجن: گھبرانا۔

تَذَابٌ وَتَذَاءَبٌ لِلتَّفَاقَةِ: اونٹنی کو دوسری کے پتے پر مرہاں بنانے کیلئے بھیرے جیسا بن کر چھنا۔

اسْتَذَابَ اسْتِذَابًا: بھیرے جیسا ہونا۔ الذَّابُّ: سد۔ قحش۔

الذُّنْبُ: بھیرنا۔ ذُنَابٌ وَأَذُنُوبٌ ذُوْرَانٌ: ذاء الذُّنْبُ: بھوک۔ ذُوْرَانُ الْعَرَبُ: عرب کے چوروں اور قہراؤ۔

الذُّنْبِيَّة: ماہہ بھیرنا۔ ایک بیماری جو جانوروں کے گلے میں ہوتی ہے۔ کجاوہ یا زمین کے دلوں پہلوؤں کے درمیان کی کشادگی۔

الذُّنْبَان: اونٹ کی گردن اور ہونٹ کے بال۔ اُونٌ جو ترش لینے کے بعد باقی رہ جائے۔

الذُّوْبَانِيَّة: پیشانی کے بال۔ تلوار کا علاقہ۔ ذُوْبَانِيَّةٌ كَلْبِيَّةٌ شَيْءٌ: چوٹی۔ اور اسی سے ہے "هُوَ ذُوْبَانِيَّةٌ قَوْمِيَّةٌ" وہ اپنی قوم کی ناک ہے۔ و"عَلَوْتُ ذُوْبَانِيَّةَ الْحَبِيْلِ" میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ ذُوْبَانِيَّةُ الرَّحْلِ: کجاوہ کے آخر میں لٹکی ہوئی کھال۔

ذُوْبَانِيَّةُ التَّغْلِ: جو تے کا تسمہ ج ذُوْبَانِيَّةٌ اور دھمکی کے وقت بولتے ہیں "لَا تَقْلَنْ لِي ذُوْبَانِيَّةً"

أَرْضٌ (مذَابِيَّة) بہت بھیروں والی سرزمین۔ ذَاوْرَةٌ (ف) ذَاوْرًا: سخت کھانڈنا۔

ذَاوْرٌ (ف) وَ ذَاوْرٌ (س) ذَاوْرًا: المَاءُ: سخت گھونٹ لینا۔ تھوڑا تھوڑا پینا۔ (مذ) ذَاوْرٌ: ذرا کرنا۔ چھاڑنا۔

الذَّابِحَةُ: القَرْبِيَّة: ملک کا بھٹنا۔ أَخْمَرُ (ذُوْرٌ) سخت سرخ۔

ذَابِيَّة: اسم اشارہ ہے قریب کیلئے۔ تشبیہ حالت رقی میں ذابن۔ اور حالت نصی و جری میں ذابن۔

ج أولاء۔ اور شاہز طریقہ سے ذابا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس پر ہاء تشبیہ داخل کر کے ہذا

بولتے ہیں اور جب من یا ما استعمال کے بعد ذاب واقع ہو تو الذابن کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے

"مَاذَا فَعَلْتُ وَمَنْ ذَاوْبِي الذَّابِرُ" کیا ہے جو تم نے کیا۔ کون ہے جو گھر میں ہے۔ اور ما کے ساتھ اسم استعمال ہوتا ہے۔ جیسے "لِيَعَاذَ اَتْرُكُنَّا" تو

نے ہم کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ذابك اسم اشارہ متوسط کیلئے اور ہاء تشبیہ کے

ساتھ ہذاک۔ اور تصغیر کی صورت میں ذابك اور تشبیہ حالت رقی میں ذابك اور حالت نصی

و جری ذابك اور جمع اُولُك۔ ذابك اسم اشارہ بعد کیلئے۔ تشبیہ ذابك ج اُولُك اور تصغیر ذابك۔

ذَابٌ (ف) ذَابًا: الشَيْءُ: جمع کرنا _____ الذَابِيَّة: جانور کو ہانکنا _____ ہ: خوف دلانا۔

دھکارنا۔ زہمت کرنا _____ الغَلَامُ: لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَابِيَّةُ الرَّيْحُ: ہر جانب سے آتا _____ الرُّجُلُ: سخت آواز کالنا۔ تیز چلنا۔

ذَيْبٌ: بھیرے سے گھبرانا۔ بکریوں میں بھیرے کا پڑنا۔

ذَيْبٌ (س) ذَابًا وَذَوْبٌ (ك) ذَابَةٌ: مکاری و خباثت میں بھیرے جیسا ہونا۔ بھیرے سے ڈرنا۔

أَذَابٌ: بھیرے سے گھبرانا _____ الْأَرْضُ: بھیروں والی ہونا (ذَابٌ الغَلَامُ: لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَابَةٌ: گھبرانا۔

تَذَابٌ: خباثت میں بھیرے جیسا ہونا _____ الشَيْءُ: کسی چیز کو باری سے لینا۔

<p>ذَبْرٌ - الْكِتَابُ: لکھنا۔ نطقے لگانا۔ بغیر کے ہوئے تیز پڑھنا۔ الذَّبْرُ - سہ۔ کتاب ج ذبَار۔ المَذْبَرُ - قلم۔ ذَبَلٌ وَذَبْلٌ (ن ک) ذُبُولًا وَذَبَلًا - التَّبَاتُ: نہات کا پڑمرہ ہونا۔ مرھانا۔ القَرْضُ: گھوڑے کا دہلا ہونا۔ لِسَانُهُ أَوْ شَفْتُهُ: زبان یا ہونٹ کا خشک ہونا۔ کہا جاتا ہے "ذَبَلْتَهُ ذُبُولًا" اسے مصیبت لاحق ہوئی۔ اذْبَلُ - التَّبَاتُ: پڑمرہ کرنا۔ القَرْضُ: گھوڑے کو دہلا کرنا۔ تَذَبَّلَ فِي الْمَشْيِ: تازہ انداز سے چلنا۔ تَذَبَّلَتِ الْمَرْأَةُ: لاغر بدن ہوتے ہوئے مردوں کی چال چلنا۔ الذَّبِيلُ - سہ۔ کچھوے کی پیٹھ کی ہڈی۔ آٹاز جوانی۔ الذَّبِيلُ - پسر کشدگی۔ الذَّبْلَةُ - میٹھی۔ مرھانے والی گرم ہوا۔ الذَّبْلَةُ - پیاس سے ہونٹوں کا خشک ہونا۔ الذَّبَائِلُ - قاب۔ باریک۔ دواج۔ ذَبْلٌ وَذَبْلٌ: الذَّبَالَةُ - الذَّبَائِلُ کامونٹ۔ عَيْنٌ ذَابِلَةٌ: چشم بھرباز۔ ذبَائِلُ - الذَّبَائِلُ: رماح کی صفت ہے۔ کہتے ہیں "الرِّمَاحُ الذَّبَائِلُ" یعنی باریک نیزے۔ صفت کو موصوف کے قائم مقام کر کے نفس رماح پر بھی اطلاق کرتے ہیں۔ الذَّبَالَةُ وَالذَّبَالَةُ - حق۔ ج ذبَائِلُ۔ ذَخَّ (ن) ذَخًا - سفر سے واپس آنا۔ الماءُ: بیٹا۔ ذَجَلَةٌ (ن) ذَجَلًا - ظلم کرنا۔ صفت (ذاجل) ذَخَةٌ - ذَخًا - تحمیر مارنا۔ الحَضْبُ: لکڑی جیرا۔ چاڑنا۔ الفِلْفَلُ: مرچ کوٹنا۔ الحَارِيَّةُ: جماع کرنا۔ ذَخِجَةٌ (ف) ذَخِجًا - چھیلنا۔ حرکت دینا۔ ذَخِجَتِ الرِّبِيْعُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ الْمَرْأَةُ تَذَبَّلُهَا: بیٹا۔ ذَخَذَخَ: قریب قریب قدم رکھ کر تیز چلنا۔ الرِّبِيْعُ التَّرَابُ: خاک اُڑانا۔</p>	<p>زین۔ رَاكِبٌ (مَذْبُتٌ) تہا جلد باز سوار۔ ذَبْحَةٌ (ف) ذَبْحًا وَذَبْحًا: چھاڑنا۔ گلا کاٹنا۔ ذبح کرنا۔ گلا گھوٹنا۔ الدِّينُ: نطقے میں سوراخ کرنا۔ ذَبَّحَ الْقَوْمُ: ذبح کرنے میں مبالغہ کرنا۔ اذْبَحَ - مذبح بنانا۔ تَذَابَحُوا: ایک دوسرے کو ذبح کرنا۔ الذَّبِيحُ: جو ذبح کیا جائے۔ مقتول۔ الذَّبِيحُ وَالذَّبِيحُ: ایک قسم کی سانپ کی چھتری۔ الذَّبِيحُ - فَا: داغ کرنے کا ایک آلہ جس سے گردن کے عرض میں داغ لگاتے ہیں۔ الذَّبِيحُ وَالذَّبِيحُ وَالذَّبِيحُ وَالذَّبِيحُ: الذَّبِيحَةُ وَالذَّبِيحَةُ: الذَّبِيحَةُ: طلق کا درد۔ الذَّبِيحُ: ذبح کیا ہوا۔ قربانی کے لائق جانور۔ الذَّبِيحَةُ: الذَّبِيحَةُ: ذبح کا مونٹ۔ جو عنقریب ذبح کیا جائے۔ ج ذبَابِحُ۔ المَذْبُوحُ: ذبح کرنے کا اوزار۔ المَذْبُوحُ: ذبح کرنے کی جگہ۔ ج مَذَابِحُ۔ مَذَابِحُ الْكُتَّابِ: سر جاکی قربان گاہ۔ ذَبَذَبَ الشَّيْءُ الْمُعَلَّقُ فِي الْهَوَاءِ: لٹکی ہوئی چیز کا حرکت کرنا۔ الرُّجُلُ: جیران و مترود ہوتا۔ ذَبَذَبَ: مترود و جیران چھوڑنا۔ ذَبَذَبَ أَهْلُهُ: حمایت کرنا۔ الخَلْقُ: تکلیف پہنچانا۔ الشَّيْءُ: حرکت دینا۔ ہلانا۔ تَذَبَذَبَ: ہلنا۔ حرکت کرنا۔ الذَّبَذَبَةُ: مس زبان۔ ہوا میں حرکت کرنے والی چیز۔ وہ چیز جو ہوا پر نہایت کے لیے لٹکائی جائے۔ ج ذبَابَذِبُ۔ الذَّبَابَذِبُ: کپڑے کے چھوڑ کپڑے کے نچلے تھے۔ المَذْبُذِبُ: مترود۔ تمھیر پس و پیش کرنے والا۔ ذَبْرٌ (ن) ذَبْرًا - الْكِتَابُ: لکھنا۔ نطقے لگانا۔ بغیر کے ہوئے تیز پڑھنا۔ الشَّيْءُ: جاننا اور اچھی طرح سمجھنا۔ ذَبْرٌ (ض) ذَبْرًا أَوْ ذَبْرًا: اچھی طرح دیکھنا۔ الحَبْرُ: بھٹا۔ الشَّيْءُ: شعر پڑھنا۔ ذَبْرٌ (س) ذَبْرًا - عَلَيَّ: غضبناک ہونا۔</p>	<p>ذَامَةٌ (ف) ذَامًا: عیب لگانا۔ رسوا کرنا۔ خارت کرنا۔ دھکارنا۔ اذَامَهُ إِذَامًا - عَلَيَّ كَذَا: مجبور کرنا۔ الذَّمُّ وَالذَّمَامُ: عیب اور امثال عرب میں سے ہے "لَقَدْ لَأْتَعَدَمُ الْحَسَنَاءُ ذَامًا" یعنی کبھی خوبصورت عورت میں بھی عیب ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے "مَا سَمِعْتُ لَهُ ذَامَةً" میں نے اس سے ایک کلمہ نہیں سنا۔ ذَبُّ (ن) ذَبًّا - عَنَتُهُ: رفع کرنا۔ حمایت کرنا۔ ذَبُّ (ض) ذَبًّا وَذَبًّا وَذُبُوتًا: گرمی یا پیاس سے خشک ہونا۔ جَسْمُهُ: لاغر ہونا۔ التَّبْتُ: پڑمرہ ہونا۔ مرھانا۔ ذَبُّ: البِعْثُ أَوْ الرُّجُلُ: مجنون ہونا۔ القَرْضُ: گھوڑے کے نتھنے میں کھسی داخل ہونا۔ صفت (مَذْبُوتٌ) ذَبَبٌ تَذْبِيثًا: بست رفع کرنا۔ شَفَقَةٌ: ہونٹ کا پیاس وغیرہ سے خشک ہونا۔ التَّهَارُ: تھوڑا باقی رہنا۔ اذَّبَ: المَكْنَانَ: بست کھپوں والی ہونا۔ صفت (مَذْبُوبٌ وَمَذْبُتٌ) اذَّبَ: سہ۔ بست حرکت کرنے والا۔ جنگلی تیل۔ الأَذْبُ: لہبا۔ جنگلی تیل۔ اونٹ کی کھلی۔ الذَّبَابُ: کھسی۔ ج اذْبَةٌ وَذَبَانٌ ذَبٌّ: بھراور شدہ کی کھسی اور چھمر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ واحد (ذَبَابَةٌ) ذَبَابٌ الشَّيْفُ: تلوار کی دھار۔ ذَبَابٌ العَيْنِ: آنکھ کی تیلی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَزَّ مِنْ ذَبَابِ العَيْنِ" وہ آنکھ کی تیلی سے زیادہ عزیز ہے۔ الذَّبَابُ: جنون۔ طاعون۔ بد بختی۔ داغی برائی۔ الذَّبَابَةُ: ذَبَابٌ کا واحد۔ ذَبَابَةُ الشَّيْءِ: چیز کا بقیہ۔ عَطَشٌ (مَذْبُتٌ) سخت پیاس۔ الذَّبَابُ وَالْمَذْبُتُ: اپنی قوم کی بست حمایت کرنے والا۔ الذَّبَانُ: پیاس سے مرھایا ہوا۔ المَذْبَةُ: مور چھل۔ چوری۔ ج مَذْبَاتٌ وَ مَذَابٌ۔ اور اسی سے ہے "أَذَابَهَا مَذَابِهَا" یعنی جانوروں کی ذم ان کیلئے مور چھل ہے۔ أَرْضٌ ذُبُوتَةٌ وَمَذْبُوتَةٌ: بست کھپوں والی</p>
---	---	--

<p>الذَّرْبِيُّ - عیب۔ الذَّرْبِيُّ - عیبیت۔ الأَذْرَبِيُّ - خلاف قیاس - آذربائیجان کی جانب نسبت۔ المِذْرَبُ - زبان۔</p>	<p>الذَّرْبُ - غضب و غصہ۔ غصہ کی وجہ سے روگردانی۔ الذَّرَاةُ - واد غیرہ جو چمڑے سے گرے۔ المِذْرَةُ - چمڑے کا آلہ۔ غلہ وغیرہ بھیرنے کا سامان۔</p>	<p>الذَّخْلُ - خون کا بدلہ۔ دشمنی۔ کینہ۔ ذُخُولٌ وَأَذْحَالٌ - تم کہتے ہو "لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ ذُخُولٌ" مجھے ان سے کینہ ہے۔ ذُخِي (ض) ذُخِيًا - الضُّوفُ : اُون کو کونا۔ الرِّيحُ الْقَوْمُ - کھلی ہو گئی۔</p>
<p>ذَّرَح (ف) ذَّرَحًا وَذَّرَحَ - الشَّقِيُّ فِي الرِّيحِ : ہوا میں اُڑانا۔ الطَّعَامُ : ذَّرَاحَ نَامِي كَيْزَاوَالِئًا - وَذَّرَحَ اللَّيْنُ : دودھ میں پانی ملانا۔ الرَّغْفَرَانِ فِي الْمَاءِ : پانی میں تھوڑا سا زعفران ڈالنا۔</p>	<p>ذَّرَأَ (ف) ذَّرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ : پیدا کرنا۔ الشَّقِيُّ : زیادہ کرنا۔ الأَرْضُ : بونا۔ (و) وَذَرِيٌّ (س) ذَّرَأَ شَعْرَهُ : سفید ہونا۔ فَلَانٌ : سفید بال والا ہونا۔ صفت (أَذْرَأُ) مؤنث ذَّرِئَةٌ -</p>	<p>الْمَذْحَاةُ - بغیر رختوں والی زمین۔ جِ مَذْحَاحٍ - ذَّرَعُ (ف) ذَّرَعُوا الشَّقِيَّ : وقت ضرورت کے لیے چھپا کرنا۔ إِذْخَرُوا وَذَّرَعُوا : بھستی ذخیرہ۔ الذُّخْرُ - ذخیرہ کا اسم جس کو ذخیرہ بنا کر رکھا جائے۔ جِ أَذْحَارٍ - الذَّاجِرُ - فَا - موٹا۔</p>
<p>الذَّرَاحُ وَالذَّرُوحُ وَالذَّرِيْعُ وَالذَّرَاحُ وَالذَّرُوحُ وَالذَّرِيْعَةُ وَالذَّرُوحُ وَالذَّرُوحُ - ایک قسم کا اُڑنے والا زہر دار کبوتر۔ مفرد کا استعمال کم ہے جمع ہی استعمال ہوتا ہے۔ تصغیر ذَّرِيْحٌ آتی ہے۔ الذَّرَاحُ - پانی ملا ہوا دودھ۔ الذَّرِيْحَةُ - پشہ۔ تیلہ۔ جِ ذَّرِيْحٍ - لَيْسَ أَوْ عَسَلٌ (مُذْرَعٌ) زیادہ پانی والا دودھ یا شہد۔</p>	<p>أَذْرَأُ إِذْرَاءً - غھبتا کرنا۔ ڈرانا۔ ہ۔ بِالشَّقِيِّ : حریص بنانا۔ ہ۔ اَلْمِي كَذَا : مجبور کرنا۔ الذَّمْعُ : بمانا۔ التَّاقَةُ : تھن میں دودھ اُتارنا۔ صفت (مُذْرِيٌّ)۔ الذَّرَاءُ - تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "يَكْفِينِي ذَّرَاءُ مِنْ خَيْرٍ" مجھے توڑی سی نکل کافی ہے۔ "هَمْ ذَّرَأُ النَّارِ" وہ لوگ آگ کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ الذَّرَاقَةُ - بوجھانے کی ابتدائی سفیدی جو کنبھیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔</p>	<p>الذَّخِيْرَةُ - وقت ضرورت کے لیے جو چیز چھپا کر رکھی جائے۔ جِ ذَّخَائِرُ - اسی سے ہے ذَّخَائِرُ الحِزْبِ اور کہتے ہیں "أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ ذَّخَائِرٌ عِنْدَ اللَّهِ" "مؤمنین کے اعمال اللہ کے ہاں ذخیرہ ہیں۔" الإذْخِرُ - سبز گھاس۔ ایک قسم کی خوشبودار گھاس۔ واحد إِذْخِرَةٌ جِ أَذْخِرُ - المُذْرَعُ - ذخیرہ رکھنے کی جگہ۔ جِ مَذْأَجِرٌ - المُذْأَجِرُ - جوف۔ رگیں۔ استریاں۔ پیٹ کے نیچے حصے۔ ذَّرُجٌ - چھوڑ دے۔</p>
<p>ذَّرَفَرٌ - المِلْحُ او الحَبُّ : چمڑنا۔ کھیرنا۔ بونا۔ الذَّرْفَارُ - باتونی۔ بکواس کرنے والا۔ ذَّرَعُ (ف) ذَّرَعَا - النُّوبُ : ذراع سے ٹانہ۔ ہ۔ کسی کے پیچھے سے ذراع سے گھاگھوٹنا (دیکھئے ذراع) ذرعہ القنی : غالب ہونا اور خود بخود آنا۔</p>	<p>ذَّرَبَ (س) ذَّرَبًا وَذَّرَبَةً وَذَّرَبَةً السَّيْفِ : تلوار کا تیز ہونا۔ صفت (ذَّرَبٌ) جِ ذَّرَبٌ - الجُنْحُ : زخم کا خراب ہونا۔ الرَّجُلُ : عجز کے بعد فصیح ہونا۔ المِعْدَةُ : بگڑنا۔ درست ہونا۔ (ضد)۔ ذَّرَبَ (ن) ذَّرَبًا وَذَّرَبٌ وَأَذْرَبَ السَّيْفُ : تلوار تیز کرنا۔ أَذْرَبَ الرَّجُلُ : تنگ گزارے والا ہونا۔</p>	<p>ذَّرَ (س) ذَّرَا وَذَّرُوْرًا - الرَّجُلُ : سر کے اگلے حصے کا سفید ہونا۔ الذَّرُّ - چھوٹی بیوٹی۔ ذرات۔ واحد (ذَّرَّةٌ) نسل۔ الذَّرُورُ - آنکھ یا زخم میں چمڑے کی دوا۔ عطر۔ جِ أَذْرَةٌ - الذَّرِيْقَةُ - ایک قسم کی خوشبو۔ الذَّرِيٌّ - تلوار کی آب و جو ہر۔ ذَّرِيْقَةُ الرَّجُلِ - (شمیث الذال) اولاد و نسل۔ جِ ذَّرِيَاتٌ -</p>
<p>ذَّرَعُ (ف) ذَّرَعًا وَذَّرَعُ (س) ذَّرَعَا - عِنْدَ الرَّجُلِ وَالْيَهُ : سفارش کرنا۔ ذَّرِعَتْ رَجُلًا : چلنے سے عاجز ہونا۔ ذَّرَعُ (ك) ذَّرَاعَةُ - الفَوْشُ : گھوڑے کا کشادہ قدم ہونا۔ صفت (ذَّرِيْعٌ)۔ ذَّرَعُ الرَّجُلِ : کسی کے پیچھے سے ذراع سے گھاگھوٹنا۔ اقرار کرنا۔ فی السَّيْفِ : اقرار کرنا۔ فی السَّيْفِ : تھرنے میں بازو پھیلانا۔ فی المَشِيِّ : چلنے میں بازو بلانا۔ الرَّجُلُ : ڈرانے یا خوش خبری دینے کے لیے بازوؤں کو بلند کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَّرَعُ لِي شَيْئًا مِنْ خَيْرِهِ" اس نے مجھے کچھ خبر دی۔ و "ذَّرَعَهُ بَيْنَنَا" اس</p>	<p>الذَّرَبُ - ہ۔ زبان کی تیزی۔ ناقابل علاج بیماری۔ زنگ۔ مورچہ۔ جِ أَذْرَابٌ - الذَّرَبُ - جگر کی ایک بیماری۔ گردن کا غدد۔ رَجُلٌ ذَّرَبٌ : تیز زبان مرد۔ الذَّرَبُ - مویج کی راہی۔ ذَّرَبُ اللِّسَانِ : تیز زبان۔ جِ ذَّرَبُ لِسَانٍ ذَّرَبٌ : زبان فصیح۔ فحش گوی زبان۔ الذَّرِيْقَةُ - غدد۔ تیز زبان عورت۔ جِ ذَّرَبٌ - الذَّرَابُ - زہر۔</p>	<p>ذَّرَ (س) ذَّرَا وَذَّرُوْرًا - الرَّجُلُ : سر کے اگلے حصے کا سفید ہونا۔ الذَّرُّ - چھوٹی بیوٹی۔ ذرات۔ واحد (ذَّرَّةٌ) نسل۔ الذَّرُورُ - آنکھ یا زخم میں چمڑے کی دوا۔ عطر۔ جِ أَذْرَةٌ - الذَّرِيْقَةُ - ایک قسم کی خوشبو۔ الذَّرِيٌّ - تلوار کی آب و جو ہر۔ ذَّرِيْقَةُ الرَّجُلِ - (شمیث الذال) اولاد و نسل۔ جِ ذَّرِيَاتٌ -</p>

<p>ذَعْرَان (ذَعَا - جَارِيَتُهُ: جماع کرنا۔ الذَعْمُور: سخت کیندور۔ ذَق (ض) ذَقَا وَ ذَقَا وَ ذَقَا: الجَرِيح: فوراً مار ڈالنا۔ فی الامر: جلدی کرنا۔ ذَقَا: الطَّاعُونُ فُلَانًا: ہلاک کرنا۔ ذَقَّف وَ ذَأَف وَ آذَف: الجَرِيح وَ ذَأَف عَلَيْهِ وَ لَهُ: فوراً مار ڈالنا۔ وَ ذَقَّف جَهَّازَ راجلِیْہ: سواری کے سامان کو ہلاک کرنا۔ ذَق (ض) ذَقِيفًا وَ اسْتَذَفَ اسْتِذْفَا فَا: الامر: ممکن ہوتا۔ الذَق: تھوڑا پانی۔ الذِقَاف: سہ۔ ذَقَّ عَلَی الجَرِيحِ کَا اس تھوڑی چیز۔ () وَ الذِقَافُ زہر قاتل۔ تھوڑا پانی۔ ج ذَقَف وَ اذِفَة: الذِقَاف: ہلاک پھانکا تیز۔ الذِقِيف وَ المَذِف: ہلاک پھانکا تیز۔ ذَقَّف ذَقَّفًا: الجَرِيح: مار ڈالنا۔ ذَقَّف: ناز سے پلانا۔ ذَقْر (س) اذَقْرَا: الشئی: بظاہر ہونا (عام طور سے بدبو میں مستعمل ہے) صفت (ذَقْرُو اذَقْرُو) مؤنث ذَقْرُو ذَقْرُو اذَقْرُو: التَّبِث: زیادہ ہونا۔ اسْتَذَقْرُو بِالْاَمْر: بچتہ ارادہ کرنا۔ الذَقْرُو وَ الذَقْرَة: بوکی تیزی بدبو۔ الذَقْرُو: ایک قسم کی بدبودار سبزی۔ الذِقْرُو: کان کے چپھے کی ہڈی۔ ج ذَقْرُو یَات وَ ذَقْرَا وَ ذَقْرَا: ج ذَقْرُو یَات وَ ذَقْرَا: مَدْفُوزَة: باغ جس میں ذقرا سبزی بہت ہو۔ تَذَقَّقَ لَهُ: ناکرہ گناہ کو شتم کرنا۔ الذِقَاق وَ المَذَقِّق: ناکرہ گناہ کو شتم کرنے والا۔ ذَقَق (ض) اذَقَقَا: الطَّائِر: پرندہ کا جھتی کرنا۔ الذِقَاب: بھیسی کایٹ کرنا۔ تَذَقَّقَ تَذَقَّقًا: الشئی: تھوڑا تھوڑا لیتا۔ الذِقَط: غھینٹا ک۔ الذِقَط: بھیسی کا پتھر۔ ج ذِقَطَان۔ رَجُلٌ ذَقِطٌ وَ ذَقِيطٌ: مرد غھینٹ۔</p>	<p>الذَعْرَة: ایک پرندہ جو ہر وقت اپنی دم کو ہلاتا رہتا ہے۔ سِنَّةٌ (ذَعْرِيَّةٌ) سخت سال۔ الذَعْوَر: خوفزدہ۔ تھمت اور بڑی باتوں سے ڈرنے والی عورت۔ نَاقَة (مَذَعْرَة) پاگل اونٹنی۔ ذَعْمَطَة (ف) اذَعْمَطَا: جلدی سے زنج کرنا۔ موت (ذَاعَمَطُوا وَ ذَعَمَطُوا) جلد آنے والی موت۔ ذَعَف (ف) اذَعَفَا: زہر قاتل پلانا۔ الطَّعَام: کھانے میں زہر پلانا۔ ذَعِف (س) اذَعَفَانَا: مرنا۔ اَذَعَفَا: جلدی مار ڈالنا۔ اِنذَعَفَ: دل کاٹ جانا۔ سانس پھولنا۔ الذَعْف وَ الذَعَاف: فوراً ہلاک کرنے والا زہر۔ مَوْتٌ ذَعَافٌ: جلدی آنے والی موت۔ کما جاتا ہے "حَيَّةٌ ذَعَفُ المَغَاب" فوراً ہلاک کرنے والا سانپ۔ الذَعْفَان: سہ۔ موت۔ طَعَامٌ (مَذَعْوَفٌ) زہر پلانا ہوا کھانا۔ ذَعَقَة (ف) اذَعَقَا: چچنا۔ بہ: گھبرا دینا۔ ذَاعَ (ذَعَق) مسلک بیماری۔ مَاءٌ ذَعَاقٌ: سخت کھاری پانی۔ ذَعِل (س) اذَعَلَا: انکار کے بعد اقرار کرنا۔ الذِعْلِب وَ الذِعْلِبَة: تیز رفتار اونٹنی۔ الذِعْلِبَة: شتر مرغ۔ بھلی حاجت۔ کپڑے کا کنارہ یا وہ ٹکڑا جو پھٹ کر لٹک رہا ہو۔ الذِعْلُوب: کپڑے کا کنارہ یا وہ ٹکڑا جو پھٹ کر لٹک رہا ہو۔ ج ذِعْلُوب: ثوب۔ ذِعَالِب: پُرَانَا کپڑا۔ ذَعْلَقَهُ ذَعْلَقًا: سرگشتہ کرنا۔ ہلاک کرنا۔ الذِعْلُوق: گند ٹاکی مانند ایک بدبودار سبزی۔ چالاک لڑکا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ۔ سانپ کی چھتری کی ایک قسم۔ ذَعْمَطَة ذَعْمَطَة: جلدی سے زنج کرنا۔ الذَعْمَطَة: بد زبان عورت۔ ذَعِن (س) اذَعِنَا وَ اذَعِنَ لَهُ: مطیع و فرمانبردار ہونا۔ تروتی کرنا۔ اذَعِنَ بِالْحَقِّ: اقرار کرنا۔ المِذْعَان: آسانی سے تابع ہونے والا۔</p>	<p>کے کنارے۔ اور اسی سے ہے "جَاءَ يَنْفُضُ وَيَلْزُقُ" وہ دھکی دیتا ہوا آیا۔ وَيَلْزُقُوا القَوْس: کمان کے دونوں کنارے۔ الاذَعْلُ: ٹیزھی ٹھوڑی والا۔ تَذَعْبَتُهُ: الجحش: خوفزدہ کرنا۔ اِنذَعَبَ: الماء: لگا تار پلنا۔ الذِعْبَان: جوان بھیڑیا۔ المِذْعَابِيْن: لگا تار و پیالے۔ کما جاتا ہے "وَايْتَهُمْ مَذْعَابِيْن كَا تَهُمْ عَزَفٌ صَبْعَان" میں نے لوگوں کو کیے بعد دیکرے دیکھا گویا کہ وہ لوگ زنج کے نیال ہیں۔ ذَعَت (ف) اذَعَفَا: سخت گلا گھونٹنا۔ ناک آلود کرنا۔ سختی سے ہٹانا۔ ذَعْبَتُهُ (ف) اذَعَبَا: سختی سے ہٹانا۔ الذِعَابَة: جماع کرنا۔ الذِعَاع: فرتے۔ واحد (ذِعَاعَة) ذَعْدَع: الشئی: پرانگندہ کرنا۔ بکھیرنا۔ کما جاتا ہے "ذَعْدَعْتُهُ التَّوَابِث" اس کو مصیبتوں نے جھڑ جھڑا دیا۔ السِّوَاو العَجْو: فاش کرنا۔ پھیلانا۔ الرِّيحُ الشَّجَر: جھڑ جھڑا دینا۔ تَذَعْدَع: بکھرا۔ پھیلانا۔ پرانگندہ ہونا۔ الذِعْدَاع: چٹل خور۔ ہمید کو نہ چھپانے والا۔ ذِعْدَاعُ النَّخْلِ: بگجور کے روی درخت۔ کما جاتا ہے "تَفْرُقُوا ذِعْدَاع" وہ لوگ ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ ذَعْرَة (ف) ذَعْرَا: ذُرَانَا: خوفزدہ کرنا۔ گھبراہٹ میں ڈالنا۔ ذَعْرُو: ذُرْنَا: صفت (مَذَعْوَر) ذَعْر (س) اذَعْرَا: درشت زدہ ہونا۔ اَذَعْرَة ذُرَانَا:۔ تَذَعْرُو: ذُرْنَا:۔ اِنذَعْرُو: ذُرْنَا: گھبراہٹ۔ الذَعْرُو: خوف۔ ذُر۔ اَمْرٌ (ذَعْرٌ) خَوْفٌ كَ مَعَالِمِ:۔ الذَاعِر: لگا ڈرنے والا۔ غھینٹ۔ رَجُلٌ (ذَاعِرٌ وَ ذَعْرٌ وَ ذَعْرَةٌ) عَيْبٌ دَارِ مَرْدِ الزُّعْرَة: دیر۔</p>
--	--	---

الذَّقَانُ - غضبتاك -

لَحْمٌ مَذْقُوطٌ كَمَنْ كَابَيْتَ كَمَا هُوَ كَوَشْتِ -
ذَقْتَهُ (ان) ذَقْنَا: ٹھوڑی پر مارنا (وَذَقْنُ)
عَلَى يَدَيْهِ أَوْ عَضَاهُ: ٹھوڑی کو سارا دینا -

ذَاقَتْهُ مَذَاقَةً: جگ کرنا -

الذَّقْنُ وَالذَّقِنُ: ٹھوڑی - جِ أَذْقَانُ -

الذَّقْنُ: بت بوڑھا -

الذَّاقَةُ: حلق کے کنارہ پر ابھرا ہوا حصہ -

الْأَذْقَانُ: لمبی ٹھوڑی والا - مؤنث ذَقْنَاءُ - ج

ذُقْنُ -

الْمَذْكُوبَةُ: پار سا عورت -

الْمَذْكُوبَةُ: زندہ دلی - کہا جاتا ہے "لَهُ أَوْفِيهِ
ذِكْرٌ كَذِبٌ" اس کے اندر زندہ دلی ہے -

ذِكْرٌ (ان) ذِكْرًا وَيَذْكُرُ كَأَنَّ اللَّهَ: تسبیح و تجمید

کرنا _____ الشَّيْءُ: دل میں یاد کرنا _____

يُقْلَانُ حَدِيثًا: ذکر کرنا _____ الْأَمْرُ: اچھی

طرح سمجھنا _____ اسْمُ اللَّهِ: اللہ کا نام لینا

حَقٌّ فَلَانَ: کسی کے حق کی حفاظت کرنا -

ذَكَرَ: الْكَلِمَةَ: مذکر استعمال کرنا - ذَكَرَهُ

الشَّيْءَ وَذَكَرَهُ بِهِ: یاد دلانا _____ الْقَوْمَ: وعظو

فصحت کرنا -

أَذْكُرُهُ: الشَّيْءَ: یاد دلانا _____ الْمَرْأَةَ:

لڑکے جتنا - صفت (مذکر)

ذَاكِرَةٌ مَذَاكِرَةٌ: فی أمرٍ: کسی معاملہ میں

مشتگلو کرنا -

تَذَكَّرَ: الشَّيْءَ: یاد کرنا -

تَذَاكُرُوا: فی الأمرِ: کسی کام میں باہم

مشغول ہونا - تَذَاكُرُوا الشَّيْءَ: کسی چیز کو یاد کرنا -

إِذْكُرُوا وَإِذْكُرُوا وَإِذْكُرُوا: الشَّيْءَ:

یاد کرنا - وَإِسْتَذْكُرَ الشَّيْءَ: پڑھنا - حفظ کرنا -

إِسْتَذْكُرَ الرَّجُلَ: یادداشت کے لیے کسی کی

انگلی میں دھاگا باندھ دینا -

الذِّكْرُ: - شہرت - کہا جاتا ہے "لَهُ ذِكْرٌ فِي

النَّاسِ" اس کی لوگوں میں شہرت ہے - تعریف و

شرف و بزرگی - نماز و دعا - وَالذِّكْرُ مِنَ

الرِّجَالِ: توانا دلدار مرد -

مِنَ الْقَوْلِ: بلند و سنجیدہ قول _____ مِنْ

الْمَنْطَرِ: بڑے قطروں والی بارش - ذِكْرٌ

المِيتِ: مرنے کے بعد لوگوں کی زبان پر نام باقی

رہنا - ذِكْرُ الْحَقِّ: جگ - جِ ذِكْرٌ -

الذِّكْرُ: یاد آوری - کہا جاتا ہے "وَأَجْعَلُهُ مِثْنِي

عَلَى ذِكْرٍ" اس کو میرے لیے ایسا کر دے کہ میں

نہ بھولوں -

الذِّكْرُ وَالذِّكْيَرُ وَالذِّكْوَرُ وَالذِّكْيَرُ: بت یاد

کرنے والا - اچھی قوتِ حافظہ والا - اچھی

یادداشت والا - وَالذِّكْيَرُ مِنَ الْحَدِيدِ: عمدہ اور

سخت لوہا - زَجَلٌ ذَكِيْرٌ: خوددار مرد - اِمْرَأَةٌ

ذَكِيْرَةٌ: مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت -

الذِّكْوَرَةُ: یاد -

الذِّكْرُ: نر - _____ مِنَ الْحَدِيدِ: عمدہ لوہا

_____ مِنَ النَّخَاسِ: سخت تاننا جو اچھی طرح کوٹا

نہ جاسکے - سَنِيْفٌ ذَكْوَرٌ: تلوار جس کی دھار عمدہ

لوہے کی ہو اور پشت معمولی لوہے کی منظر ذَكْوَرٌ:

سخت بارش - الذِّكْوَرُ مِنَ النَّخْلِ: پھل نہ دینے

والا کھجور کا درخت - جِ ذَكْوَرٌ - وَ ذَكْوَرَةٌ

وَ ذَكْوَرَانٌ وَ ذِكَاؤٌ وَ ذِكَاوَةٌ وَ ذَكْوَرٌ

الْبَقْلُ: وہ ترکاریاں جو لمبی اور سخت ہو گئی ہوں -

الذِّكْرُ: عضو تاسل - جِ ذَكْوَرٌ وَمَذَاكِيْرُ -

الذِّكْرِيُّ: یاد دہالی - دل باز یا نر سے یاد کرنا -

الذِّكْوَرَةُ: شہرت - کلمائی کے سر پر فولاد کا ٹکڑا -

وَ ذَكْوَرَةٌ السَّنِيْفُ: تلوار کی تیزی -

الذِّكْوَرَةُ: ذاکر کا سونٹ - قوتِ حافظہ -

التَّذْكِرَةُ: ضرورت کو یاد دلانے والی چیز - وَعِشْدُ

المَوْلِيْدِيْنِ: سرٹیلیٹ - پاسپورٹ - ٹکٹ - جِ

تَذَاكُرٌ -

رَجُلٌ (ذَكْوَرٌ) اللہ تعالیٰ کو بت یاد کرنے والا -

الذِّكْوَرَةُ: مردی -

المُذَكِّرُ: لڑکے جننے والی عورت - يَوْمٌ مُذَكِّرٌ:

سخت دہشت کا دن - طَرِيْقٌ مُذَكِّرٌ: خوفناک

راستہ - ذَاهِيَةٌ مُذَكِّرَةٌ: سخت مصیبت -

المُذَكِّرُ: نر - _____ مِنَ السَّنِيْفِ: آبدار تلوار -

طَرِيْقٌ مُذَكِّرٌ: خوفناک راستہ - يَوْمٌ مُذَكِّرٌ: سخت

دہشت کا دن -

المُذَكِّرَةُ وَالْمُذَكِّرَةُ: مردوں کی مشابہت

کرنے والی عورت -

المُذَكَّرُ: عورت جس کی عادت لڑکے جننے کی

ہو - أَرْهَضَ مِذْكَاؤًا: سخت ترکاری اگانے والی

زمین -

ذَكَتٌ تَذْكُفُ ذَكْوًا وَ ذَكَا وَ ذَكَاةٌ

وَ اسْتَذَكَّتِ: النَّارُ: سخت شعلہ بھڑکانا -

الشمسُ: آفتاب کا سخت گرم ہونا _____

الحَزْبُ: لڑائی کا تیز ہونا -

ذَكِيٌّ يَذْكِيٌّ وَ ذَكِيٌّ يَذْكِيٌّ وَ ذَكْوٌ يَذْكُو

ذَكَاةٌ: تیز خاطر ہونا - صفت (ذکیمی) مؤنث

ذَكِيَّةٌ: جِ أَذْكِيَاءُ -

ذَكَا يَذْكُو ذَكَاوَةً: الذَّيْبِيْحَةُ: ذبح کرنا

ذَكَاةٌ (مِثْلُ): مہک کی خوشبو بھڑکانا -

صفت (ذکیمی)

ذَكِيٌّ: النَّارُ: آگ بھڑکانا _____ الحَزْبُ:

لڑائی کی آگ بھڑکانا _____ الذَّيْبِيْحَةُ: ذبح کرنا -

الرَّجُلُ: بڑی عمر کا اور موٹا ہونا -

أَذْكِيٌّ: النَّارُ: آگ بھڑکانا - روشن کرنا -

الحَزْبُ: لڑائی کی آگ بھڑکانا - اور کہا جاتا ہے

"أَذْكِيٌّ عَلَيْهِ الْعَيْنُ" اس نے اس پر جاسوس

بیچے -

اسْتَذَكَّتِ: النَّارُ: آگ بھڑکانا -

روشن کرنا - اسْتَذَكَّتِ النَّارُ: آگ کا تیز بھڑکانا -

الذَّكَاةُ: - تیزی خاطر - زود فہمی -

ذَكَاةٌ: آفتاب کا اسمِ علم ہے (غیر مصروف) کہا

جاتا ہے "ظَلَعَتْ ذَكَاةٌ" آفتاب طلوع ہو گیا -

إِبْنُ ذَكَاةٍ: صبح -

الذِّكْوَرَةُ وَالذَّكِيَّةُ: ایندھن - آگ سلگانے کی

چیز -

الذَّكَاةُ: - (انکار) _____ وَالذَّكَاةُ: ذبح -

المُذَكِّيُّ وَالْمُذَكِّيَّةُ: مِنَ السَّمْحَابِ: بت

بارش والا بادل - المُنْذَكِّيُّ مِنَ النَّخْلِ: گھوڑا

جس کی عمر بڑی اور قوتِ کامل ہو چکی ہو - جِ

المُذَكِّيُّ وَالْمُذَكِّيَّاتُ:

الذِّكْوَانَةُ: چھوٹا زین - جِ ذَكَاوِيْنُ -

ذَلٌّ (ض) ذَلٌّ وَ ذَلَّةٌ وَ ذَلَالَةٌ وَ مَذَلَّةٌ: ذلیل

ہونا - خوار ہونا - صفت (ذلیل) جِ أَذْلَاءٌ

وَ أَذْلَةٌ وَ ذِلَالٌ - () _____ ذَلٌّ وَ ذِلَالٌ: التَّبَعِيُّ:

آسانی سے تابع ہونا - صفت (ذلول) جِ أَذِلَّةٌ

وَ ذُلٌّ: کہا جاتا ہے "ذَلَّتْ لَهُ الْقَوَامِي" اسے

تواری کی آمد ہوئی۔

ذَلَّلَهُ وَأَذَلَّهُ وَإِسْتَذَلَّهُ. ذَمِيلٌ كَرُمًا. أَذَلَّهُ
وَإِسْتَذَلَّهُ: ذَمِيلٌ پانا۔ وَأَذَلَّ الرَّجُلُ: سَمَحَ
ذَمْتٌ ہونا۔ ذَمِيلٌ سائھیوں والا ہونا۔ذَمِيلٌ الْكُرْمُ: بَکْجے لٹکایا جانا یا برابر کیا جانا
النَّخْلُ: درخت خرما کے خوشوں کو
کڑی پر رکھنا۔

تَذَلَّلَ لَهُ: حاکساری و فرو تھی کرتا۔

الذَّلِيلُ: مہربانی و نرمی۔ ذَلَّ الظَّرِيقُ: راستہ
کا روندنا ہوا۔ حَصْرٌ أَذْلَالٌ: کہا جاتا ہے "ذَعَهُ
عَلَى أَذْلَالِهِ" اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ و
"جَاءَ عَلَيَّ أَذْلَالُهُ" وہ اپنے طور طریقہ پر آیا۔ و
"أَمْوَرُ اللَّهِ جَارِيَةٌ أَذْلَالُهَا أَوْ عَلَيَّ أَذْلَالُهَا"
اللہ کے امور حسب مواقع جاری ہیں۔ وَأَذْلَالُ
النَّاسِ: سب سے آخری لوگ۔الذَّلُّ: مہربانی۔ تاجداری۔ سہولت۔ نرمی۔ تواضع۔
کہا جاتا ہے "ذَلَّ ذَمِيلٌ" ذَمِيلٌ کرنے والا یا بڑی
ذمت۔الذَّلُولِيُّ: نرم اور اچھے اخلاق والا۔
ظَرْفٌ مَذْلُولٌ: چلتا ہوا راستہ۔
شَجْوَةٌ (مَذْلُولَةٌ) درخت جس کو ہر شخص یا
لے۔ذَلَجَ (ن) ذَلَجًا: الضَّاءُ گھونٹ گھونٹ پینا۔
الذَّلَاحُ: پانی ملا ہوا دودھ۔ذَلَعُ (ف) ذَلَعًا: پٹے ہوئے ہونٹ والا ہونا۔
صفت (أَذْلَعُ) الضَّغَامُ: کھانا
الجَوَابِيَةُ: جماع کرتا۔ذَلَعَتْ (س) ذَلَعًا: شَفَقَتْ: ہونٹ کا اٹلنا۔
صفت (أَذْلَعُ)تَذَلَّلَنَ الشَّيْءُ: ڈھیلا ہونا۔ مضطرب ہونا۔
الذَّلِيلُ وَالذَّلِيلُ: کپڑے کا دامن۔ رَج
ذَلِيلٌ: کہا جاتا ہے "شَحْرٌ ذَلِيلٌ لِهَذَا
الْأَمْرِ" اس کام کیلئے اپنے دامن کو بیٹھ لو۔ یعنی
مستعد ہو جاؤ۔ ذَلِيلٌ النَّاسِ وَذَلِيلٌ لَانْتَهُمُ"
سب سے آخری لوگ۔ذَلِيفٌ (س) ذَلَفًا: الْأَنْفُ: ناک چھوئی اور
ہموار ہونا۔

الْأَذْلَفُ: چھوئی اور ہموار ناک والا۔ مَوْنَتْ

ذَلَفًا ج ذَلْفٌ۔

ذَلِقٌ (ن) ذَلَقًا وَأَذَلِقُ: الظَّائِرُ: بیٹ کرتا۔ ذَلِقُ
اللسانُ: تیزو فصیح ہونا۔ (____ وَأَذَلِقُ وَذَلِقُ)
اللسانُ: چھری تیز کرتا۔ ذَلَقَهُ وَأَذَلَقَهُ وَذَلَقَهُ:
کمزور و لاغر کرتا۔ ذَلِقُ الضَّبُّ: بچو کو باہر نکالنے
کیلئے سوراخ میں پانی ڈالنا۔ذَلِقٌ (س) ذَلَقًا: السِّنْفُ أَوِ اللِّسَانُ: تلواریا
زبان کا تیز ہونا۔ السَّوْجُ: چراغ روشن
ہونا۔ الرَّجُلُ: رنجیدہ ہونا۔____ مِنَ الْعَطَشِ: پیاس سے قریب الموت
ہوتا۔

ذَلِقٌ (ك) ذَلَقَةً: اللِّسَانُ: فصیح ہونا۔

إِنذَلِقُ: تیز زبان ہونا۔

الذَّلِقُ: مہربانی۔ ذَلِقُ الشَّيْءِ وَذَلَقْتَهُ: کسی چیز کی
تیزی۔ ذَلِقُ اللِّسَانُ: زبان کا کنارہ۔ ذَلِقُ
السَّهْمِ: تیز کا باریک حصہ۔الذَّلِقُ وَالذَّلِقُ وَالذَّلِقُ وَالذَّلِقُ وَالذَّلِقُ
وَالذَّلِقُ: مِنَ الْأَلْسِنَةِ أَوِ الْأَسِنَّةِ: تیز زبان یا
بھلا۔ کہا جاتا ہے "لِسَانٌ ذَلِقٌ طَلِقٌ وَذَلِقٌ طَلِقٌ
وَذَلِقٌ طَلِقٌ" تیز زبان فصیح و بلیغ۔الْأَذَلِقُ: مِنَ الْأَلْسِنَةِ أَوِ الْأَسِنَّةِ: تیز زبان یا
بھلا۔ ج ذَلِقٌ۔

الذَّلُولُ: مِنْ كَلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کی تیزی۔

ذَوَّلِقُ اللِّسَانُ: زبان کا کنارہ۔ اور اسی سے ہے
"أَلْحُرُوفُ الذَّلُولِيَّةُ" یعنی وہ حروف جس کا خروج
کنارہ زبان ہے۔

الْمَذَلِقُ: تیز کنارہ والا۔ پانی ملا ہوا دودھ۔

ذَلِي يَذَلِي ذَلِيًا: الرَّطْبُ: تر کھجور چننا۔

إِنذَلِي: الرَّطْبُ: تر کھجور چننا جاتا۔

تَذَلِي: تواضع۔ فرو تھی کرتا۔

إذَلُولِي: ذَمِيلٌ ہونا۔ مطبوع ہونا۔ چھپ کر چپکے
سے جلدی نکل جانا۔ذَمَّةٌ (ن) ذَمًا وَذَمَّةً: بَرَاءِي بَيَانٌ كَرُمًا
الْأَنْفُ: رینٹ ہونا۔

ذَمَّةٌ: بَرَاءِي بَيَانٌ كَرُمًا: میں سے مبالغہ کرتا۔

ذَمَّةٌ عَيْشَةٌ: جماعت کرتے ہوئے گزارہ کرتا۔
أَذَمَّةٌ: قائل مذمت پانا۔ پناہ دینا اور اپنی حفاظت
میں لے لینا۔ الرَّجُلُ: قائل مذمت فعل کرتا

ذَم

ذَم

ذَم

ذَم

ذَم

ذَم

عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ: کسی کے لیے پناہ لینا۔

الْمَكَانُ: خشک و بے برکت ہونا۔ أَدَمٌ بِهِمْ:
حقارت کرنا اور بقول بعض مذموم حالت میں
چھوڑنا۔تَذَامٌ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی بَرَاءِي بَيَانٌ
کرتا۔تَذَمَّتْ مِنْهُ: تنگ و عار سمجھنا اور شرم کرتا۔ کہا
جاتا ہے "إِنِّي أَتَذَمُّ مِنَ الْقَوْمِ" میں قوم سے
دوسروں کی طرف تنقل ہو جاؤں گا۔

إِسْتَذَمْتُ: قائل مذمت فعل کرتا۔

بِهِ: پناہ طلب کرنا۔ إِلَى فُلَانٍ: کسی کے
ساتھ ایسا فعل کرنا جس پر وہ اس کی مذمت
کرتے۔الذَّمُ: مہربانی۔ بَرَاءِي۔ مذمت۔ ج ذَمُّومٌ: کہا جاتا
ہے "إِفْعَلْ كَذَا وَخَلَاكَ ذَمُّ" ایسا کرو تمہیں
اس پر ملامت نہ ہوگی۔ الذَّمُ بمعنی مذموم۔
صدر بمعنی مفعول۔بِتَرٍ (ذَمَّةٌ) كَمِ بَانِي وَالْأَنْوَالِ: زیادہ پانی والا
کنواں۔الذِّمُّ: کفالت۔ بہت زیادہ لاغر۔ ہلاک ہونے
والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ذِمٌّ" ہلاک ہونے والا
مرد۔

الذِّهَامُ: حق۔ عزت۔ حرمت۔ ج ذِمَّةٌ۔

الذِّهَامَةُ وَالذِّهَامَةُ: کفالت۔

الذِّهَامَةُ: بقید۔

الذِّمَّةُ: امان۔ عہد۔ ذمہ داری۔ کہا جاتا ہے
"فِي ذِمَّتِي كَذَا" یعنی میری ذمہ داری میں۔ ج
ذِمَّةٌ أَهْلُ الذِّمَّةِ: دارالسلام میں جزیہ دے کر
رہنے والے کفار۔ ایک دوسرے کے ساتھ
معاہدہ کرنے والی قوم۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ فِي
ذِمَّةِ اللَّهِ" تو اللہ کی پناہ میں ہے۔الذِّمِّيُّ: جزیہ دے کر دارالسلام میں رہنے
والا۔

الذِّمِّيُّ: بَرَاءِي۔ منہ پر کی پھینسی۔ جَنَمٌ۔ رینٹ۔

بَدْرَةٌ بَانِي: بِنْتُ ذَمِيمٍ: کم یا زیادہ پانی والا کنواں
(ضد) ج ذِمَامٌ۔

الْمُذَمَّمُ: ہا۔ بے حرکت۔ اَمْوَمُذَمَّمٌ: عیب دار۔

الْمَذَمَّةُ: مہربانی۔ حق و حرمت۔ اور اسی

الجزأذ: مئذی کا بڑے دینے کے لیے زمین میں
 ذم چھونا _____ الضب: بجز کا سوراخ سے
 صرف ذم باہر نکالنا۔
 أذنب الرجل: گنہگار ہونا۔
 تذنت عليه: زیادتی کرنا _____ الرجل:
 شملہ لگانا _____ الظریق: راست اختیار کرنا۔
 تذانت السحاب: بادلوں کا ایک دوسرے
 کے پیچھے ہونا۔
 استذنته: پیچھے جانا۔ گنہگار پانا یا سمجھنا
 الأمر: کال ہونا۔
 الذنب: گناہ۔ ج ذنوب و ج ذنوبات۔
 الذنب من الحيوان: دم۔ ج أذنان۔
 أذنان الناس: معمول لوگ۔ ذنب العقرب:
 بچھو کا ذنب۔ ذنب السوط: کوڑے کا کنارہ۔
 ذنب الغلبل و ذنب الفرس و ذنب
 الخيل: مختلف نباتات کے نام۔ اور کہا جاتا ہے
 "ضرب بذنبه" اس نے اقامت کر لی۔ و ذكبت
 ذنب البعير: وہ ناقص حصہ پر راضی ہو گیا۔
 و ذكبت ذنب الریح: وہ آگے بڑھ گیا اور کوئی
 اس کو نہ پاسکا۔ و "تنبى و ينبئ ذنب الضب"
 میرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے۔
 الذناب: اونٹ کی دم یا نہی کی رسی۔
 ذناب النسي: چیز کا پچھلا حصہ۔ ج ذناب
 الذنابة: قربت۔ (_____ والذنابق والذنبية)
 من الوادى: وادی کے بننے کی انتہائی جگہ۔
 الذنبية: دم۔ ذنابت الناس و ذنابتهم:
 لوگوں میں معمول اور گنہگار کے لوگ۔
 الذنابي: پرندہ کی دم۔
 الذنوب: من الخيل: لمبی اور زیادہ بالوں کی
 دم والا گھوڑا۔ ج ذنائب و ذناب و أذنبية۔
 الذنوب: قبر و نہی کی چلی کا گوش۔
 ضب (أذنب) لمبی ذم والی گوہ۔
 الذنبى والذنبى: دم۔
 المذنب: لمبی دم۔ پتلا نالہ۔ کہا جاتا ہے
 "سألت المذنب" نالے بہ پڑے (_____
 والمذنبية) بچھ۔
 المذنب: دم دار۔ اور اسی سے ہے "نجم
 مذنب" ذم دار تارہ۔

ذمل (ن ض) ذملاً و ذملاً و ذملاً و
 ذملاً: البعير: اونٹ کا آہستہ چلنا۔
 ذمل البعير: اونٹ کو آہستہ چلانا۔
 ناقة (ذمؤن) آہستہ چلنے والی اونٹنی۔ ج ذمل۔
 الأذمل: برص والا۔
 ذملق ذملقة: چالوسی کرنا۔
 الذملق: چالوسی۔ تیز زبان۔ تیز کوار۔
 ذميه (س) ذمها: الحوز: گرمی سخت ہونا
 الرجل بالحوز: سخت گرمی لگنا۔
 ذمى (س) ذمما و ذمما: بلنا۔
 ذمى (ض) ذمما: لمبی بیماری والا ہونا۔ قریب
 الموت ہونا۔ بدبو لگانا (_____ ذمياً، جلدی کرنا
 ذمته الریح تذميه ذمياً) تکلیف دینا۔
 أذمى الذمما: فلاناً: مار کرنے کے قریب کر
 رہنا۔
 استذمى: ما عنده: جو کچھ کسی کے پاس ہو
 ڈھونڈ کر سب کچھ لے لینا۔
 الذمى: بدبو۔
 الذمما: بقیہ روح۔ کہا جاتا ہے "أظول ذمما"
 من الضب: وہ بجز سے زیادہ سخت جان ہے۔ اس
 وجہ سے کہ بھوکے روح بڑی دیر میں نکلتی ہے۔
 ذن (ض) ذنبنا و ذننا: المصاخط: رینٹ ہرنا۔
 کہا جاتا ہے "إنه ليدن" یعنی وہ بڑھا ہے یا مرض
 کی وجہ سے ضعیف ہے۔ و "ما زال يدن فى تلك
 الحاجة حتى انبححها" وہ ہمیشہ اس حاجت میں
 لگا رہا میں تک کہ اس کو کامیاب کر لیا۔
 ذن (س) ذننا و ذنن: رینٹ بننے والا ہونا۔
 ذن (ض) ذنبنا: النبوذ: سخت سردی ہونا۔
 الذنن: گندگی۔
 الأذن: وہ شخص جس کے دونوں نتھوں سے
 رینٹ برہ رہی ہو۔ مؤنث ذننا۔ ج ذن اور أنفك
 منك وإن كان أذن مثال ہے۔ اس شخص کے حق
 میں بولتے ہیں جو اپنے ضعف قوم سے بیزار ہو۔
 الذنان والذنين: بننے والی رینٹ۔
 الذنانية: حاجت۔ کمزور چیز کا لقب۔
 ذنبه (ض) ذنبا: پیچھے لگے رہنا۔
 ذنب العمامة: شملہ لگانا _____ الكتاب:
 تمہ لگانا _____ الضب: بھوکے ذم پھلینا _____

سے ہے "هو يحفظ مذمته" وہ اپنے حق کی
 حفاظت کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے "قضى مذمته
 أو مذمته" اس نے ذمت و بڑائی کے خوف
 سے اس کے ساتھ احسان کیا۔ "و أذهب منه
 بشئ" اس کو کچھ دو کہ اس کا حق ہے۔
 المذمم مذموم۔
 ذمأف (ذمأ) الممز عليه: دشوار ہونا۔
 ذمت (ض) ذمنا: لاغر ہونا۔ خفیر ہونا۔
 ذمحل ذمحل: لڑھکانا۔
 ذمذم الرجل: تھوڑا عطیہ دینا۔
 ذمزه (ن) ذمزا: دھمکی دینا۔ ذمزه على
 الأمر: بلا مت کے ساتھ کسی کام پر برا بیعت کرنا
 الأسد: گونجا۔ دھاڑنا۔
 ذمزه الشئ: اندازہ کرنا _____ الرجل:
 کسی کے موڑھے کو چھونا۔
 تذمزه: فوت شدہ چیز پر اپنے آپ کو ملامت
 کرنا۔ غھیناک ہونا۔ کہا جاتا ہے "كان يتذمزه
 على زبته" وہ اپنے رب پر بگڑتا تھا _____ على
 فلان: بگڑنا اور دھمکی دینا۔ (_____ و تذامز)
 القوم: ایک دوسرے کو جنگ پر برا بیعت کرنا۔
 ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔
 الذمور والذمور والذمير: بہادر۔ ج
 أذمار۔
 الذمار: ہر وہ چیز جس کی حمایت و حفاظت
 ضروری ہو۔ حرم۔ اپنے لوگ۔ کہا جاتا ہے "هو
 أمتنع ذمارة منك" وہ تم سے زیادہ حفاظت
 کرنے والا ہے و "هو خايم الذمار" وہ قابل
 گمداشت چیز کی حمایت و حفاظت کرنے والا
 ہے۔
 ذمارة: جنگ پر برا بیعت کرنے کے لیے اسم فعل
 ہے۔
 الذمارة: شجاعت۔ بہادری۔
 الذميرى: تیز طبیعت۔
 المذمور: غم۔ کدھا گردن اور اس کا ارد گرد۔
 کہا جاتا ہے "بلغ الأمر المذمور" معاملہ شدت
 کو پہنچ گیا۔
 ذمظه (ض) ذمظا: زنج کرنا۔
 طعام (ذمظ) زور ہضم خوراک۔

(اس کا اور اس کے تشبیہ اور جمع کا اعراب انہی جیسے مشابہ کلمات کا اعراب جیسا ہوتا ہے) کہا جاتا ہے "لَقَيْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ اَوْ ذَاتَ مَرَّةٍ" میں نے اس سے کسی دن یا کسی رات یا کسی دفعہ ملاقات کی۔ "وَكَانَ ذَلِكَ ذَاتَ الْعُيُونِ" یہ گزشتہ سال تھا۔ و "جَلَسَ ذَاتَ الْيَمِينِ" وہ دائیں جانب بیٹھا۔ "وَلَقَيْتُهُ اَوَّلَ ذَاتِ يَدَيْهِ" میں سب سے پہلے اس سے ملا۔ ذَاتُ الصَّدْرِ: گلہ یا بھید۔ ذَاتُ الْيَمِينِ: دائیں جانب۔ ذَاتُ الْبَيْتِ: حال۔ کہا جاتا ہے "اَصْلُهُ ذَاتُ ذَاتِ بَيْنِكُمْ" تم لوگ اپنی اس حالت کو درست کرو جس پر اتفاق کر سکتے ہو۔ ذَاتُ شَفِيعَةٍ: گلہ۔ کہا جاتا ہے "كَلَّمْتُهُ فَمَا زِدَ عَلَيَّ ذَاتَ شَفِيعَةٍ" میں نے اس سے گفتگو کی اس نے جواب میں ایک کلمہ بھی نہیں کہا۔ ذَاتُ الْبَيْدِ: ملکیت۔ کہا جاتا ہے "قُلْتُ ذَاتَ يَدَيْهِ" اس کی ملکیت تم ہو گئی اور کہا جاتا ہے "اَلْقَتْ الدَّجَاجَةَ ذَاتَ بَغْلَيْهَا" یعنی مرغی نے انڈا دیا یا بیٹ کی۔ ذَاتُ الْيَنْبِ عِنْدَ الْاَطْبَاءِ: نمونہ۔ ذَاتُ الرِّئَةِ وَذَاتُ الصَّدْرِ وَذَاتُ الْكَبِدِ: بیماریوں کے نام۔

الذات۔ وہ چیز جو جانے یا خبر دینے کے قابل ہو۔ ذَاتُ الشَّيْءِ: نفس شئی۔ عین شئی۔ جوہر شئی۔ اِسْمُ الشَّيْءِ۔ عِنْدَ التَّحَاةِ: نحویوں کے نزدیک اسم ذات وہ ہے جو کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ جیسے مرد۔ شیرو وغیرہ اور اس کے مقابلہ اسم معنی ہے جیسے علم، شجاعت، سخاوت وغیرہ۔ الذوات عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ: قوم کے بڑے بڑے لوگ۔

الذاتی۔ ذات کی جانب منسوب۔

ذَابَ (ن) ذَوْبًا وَذَوْبًا۔ الفلجُ اَوْ السَّمْنُ: برف یا گھی پگھلنا۔ دَفَعَهُ: اَنزَوْهُ

الشمسُ: آفتاب کا گرم و تیز ہونا۔ الرَّجُلُ: عقل مند کی بعد پر توفیق ہونا۔ شد کھانے پر مداومت کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَابَ لِي عَلَيَّ حَقٌّ" میرا حق اس پر ثابت ہوا اور "مَا ذَابَ لِي يَدِي مِنْ خَيْرٍ" مجھ کو اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ و "ذَابَ جَسْمُ الرَّجُلِ" اگر ہو گیا۔

حَصْرٌ۔

الْمَذْهَلُ: ہٹکا ہونے کی جگہ۔

الْمَذْهُولُ: مِنَ الذَّخِيلِ اَوْ الرِّجَالِ: عمدہ گھوڑا۔ اچھا آدمی۔ ج ذَهَائِلُ۔

ذَهْنٌ (ف) ذَهْنًا۔ الْأَمْرُ: سمجھنا۔ تیزی خاطر میں غالب آنا۔ وَأَذَهْنَ وَاسْتَذَهْنَ الرَّجُلُ عَنِ الْأَمْرِ: فراموش کر دینا۔

ذَهْنٌ (س) ذَهْنًا۔ الشَّيْءُ: سمجھنا۔

ذَهْنٌ (ك) ذَهَانَةٌ۔ اِتَّخَذَ حَافِظًا وَاللَّاهُوتًا۔

ذَهْنٌ: ذہن کا زائل ہونا۔

ذَاهِنَةٌ: ذہن کی تیزی خاطر میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ يُذَاهِنُ النَّاسَ وَنِفَاطِئَهُمْ" وہ لوگوں سے ذہانت اور فطانت میں مقابلہ کرتا ہے۔

أَقْرَبُ الْمَوَادِّ فِي شَرْحِ إِشَارَاتِ كِتَابِ حَوَالِهِ: علم حاصل کرنے کے لئے نفس کی استعداد کا نام ذہن ہے اور اس استعداد کی جو ذہانت کا نام فطانت۔

الذہن۔ سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ ذہن کی تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مناہر جملی ذہن" میرے پیر میں چلنے کی قوت نہیں۔ ج اذہان۔

الذہن۔ سمجھ۔ ذہن کی سوج اذہان۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَذْهَانِ" وہ سمجھ دار لوگوں میں سے ہے۔

رَجُلٌ ذَهْنٌ وَذَهْنٌ: ذہن اور سمجھ دار مرد۔

ذَهَانٌ (ذَهْوًا): تکبر کرنا۔

ذُو: صاحب مالک۔ تشبیہ ذَوَانٍ۔ ج ذَوُونٌ (اس کا اعراب اسائے ست کبیرہ کا اعراب ہے) کہا جاتا ہے "وَجَدْتُهُ ذَا صَبَاحٍ" میں نے اس کو صبح کے وقت پایا و "جَاءَ مِنْ ذِي نَفْسِهِ" وہ فرما تہداری کی حالت میں آیا۔ اور قنماء کے قول "ذُو الْبَيْدِ أَحَقُّ" کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ کرنے والا زیادہ حق دار ہے و "وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ ذِي قَبْلِ" یعنی یہ گزشتہ زمانہ میں تھا۔ ذَوُّ الْأَرْحَامِ: رشتہ دار۔ اقربا۔

الذَوُونُ وَالْأَذْوَاءُ: بہن کے بادشاہ جن کے نام لفظ ذو سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ذَوِي بَنِي ذَوْنُواس۔ ذَوِي رِيَاشِ وَغَيْرِهِ۔

ذَاتٌ: ذُو كَامُرْتٌ۔ تشبیہ ذَوَاتَانِ۔ ج ذَوَاتٌ

الْمَذَابِ: مِنَ الْاِبِلِ وَالذَّخِيلِ: سب سے آخر میں چلنے والا اونٹ یا گھوڑا۔

ذِهْوٌ: اسم اشارہ مؤنث ہے قریب کے لیے اور اس پر "ہا" تشبیہ داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہذوہ و ہذوہ۔

ذَهَبٌ (ف) ذَهَابًا وَذُهْوًا وَمَذْهَبًا۔ جانا۔ گزرتا۔ مرتا۔ الْأَمْرُ: ختم ہونا۔ عَلِيُّ الشَّيْءِ: بھول جانا۔ یہ: لے جانا۔ ساتھ جانا۔ جگہ سے ہٹانا اور اسی سے ہے "ذَهَبَتْ بِهِ الْخُبَيْلَاءُ" اس کو تکبیر لے گیا یعنی اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دیا۔

فِي الصَّنْفَةِ إِلَى كَذَا: فلاں رائے اختیار کرنا۔

ذَهَبٌ (س) ذَهَبًا۔ سونے کی کان میں بہت سا سونپا کر جیران ہونا۔

أَذْهَبَ وَذَهَبَ۔ سونے کی قلعی کرنا۔ صفت مفعول (ذَهَيْتُ وَمَذْهَبْتُ وَمَذْهَبْتُ) أَذْهَبَهُ وَأَذْهَبَ بِهِ۔ لے جانا۔ جگہ سے ہٹانا۔

الذہب۔ سہ۔ سونا (کبھی مؤنث بھی بولتے ہیں) ج اذہاب و ذُهوب و ذُهبان۔ ایک گلے کو (ذَهْبَةٌ) کہتے ہیں۔ الذہب: انڈے کی زردی۔ ج ذہاب و اذہاب و ج اذہاب۔

الذہبہ۔ بھگی یا بہت بارش۔ ج ذہاب و اذہاب و ج اذہاب۔

الذُهوبُ: جانے والا۔

الْمَذْهَبُ: سہ۔ روش۔ طریقہ۔ اعتقاد۔ اصل۔ ج مذہب "تَمَذَّهَبَ بِالْمَذْهَبِ" اسی سے فعل بنا ہے یعنی اس نے مذہب اختیار کیا۔ مشہور مذہب چار ہیں۔ حنفی۔ شافعی۔ حنبلی۔ مالکی۔

الْمَذْهَبَاتُ: زمانہ جاہلیت کے طبقہ ثانیہ کے آٹھ تعلقات کے علاوہ سات قصائد۔

ذَهْرٌ (س) ذَهْرًا۔ فوہ: کالے دانوں والا ہونا۔ صفت (أَذْهَرُ) مؤنث ذَهْرَاءُ۔ ج ذَهْرٌ۔

ذَهَلٌ (ف) ذَهْلًا وَذُهُولًا۔ الشَّيْءُ وَعَثَةٌ: بھول جانا۔ غافل ہو جانا۔

ذَهَلٌ (س) ذَهُولًا۔ ہٹکا ہونا۔ ہوش میں نہ رہنا۔

أَذْهَلَ: غافل کر دینا۔


الذَّهْلُ وَالذَّهْلُ: مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک

ذَوْبُ السَّمْنِ: کھی پھلانا۔ الغلام: لڑکے کے گیسوتانا۔
 آذَابٌ إِذَابَةٌ: السَّمْنُ: کھی پھلانا۔
 حَاجَتُهُ: حاجت پوری کرنا۔ القَوْمُ: اَمْرُهُمْ: درست کرنا۔ عَلَى الْعَدُوِّ: دشمن پر لوٹ ڈالنا۔
 اسْتَذَابَهُ: پھلانے کو کہنا۔ شِدْمًا مَلَكْنَا: الشَّيْءُ بَالِي رَكْبًا: حَاجَتُهُ: پوری کرنا۔
 الذَّابُّ: عیب۔
 الذَّوْبُ: سد۔ خالص شد۔ ذَوْبُ الذَّهَبِ: سونے کا پانی یا پھلانا ہوا سونا۔ اور کہا جاتا ہے ”ہذا الکَلَامُ ذَوْبُ الرُّوحِ“ یہ کلام روح کو پھلانے والا ہے۔
 الذَّوْبِيَّةُ: ذاب کا اسم مرہ: کہا جاتا ہے ”ظَهَرَتْ مِنْهُ ذَوْبِيَّةٌ“ اس سے حماقت ظاہر ہوئی۔ مال کا بقیہ جس کو انسان باقی رکھے۔ نَاقَةٌ (ذَوْبُوت) موٹی اونٹنی۔
 الإذْوَابُ: الاذوابة۔ مھن جو ہانڈی میں کھی حاصل کرنے کیلئے پھلایا جائے۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ أَخْلَى مِنَ الذَّوْبِ بِالْإذْوَابَةِ“ وہ خالص شد جو خالص مھن کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اس سے زیادہ بیٹھا ہے۔
 المذْوَبُ: سونا وغیرہ پھلانے کی کھالی۔
 المذْوَبَةُ: مچھ۔
 ذَاخُ (ن) ذَوْجًا: جلدی کرنا۔ الصَّاءُ: پانی پینا۔
 ذَاخُ (ن) ذَوْخًا: سخت چال چلانا۔
 (ذَوْخٌ) الإِبِلُ: اونٹوں کو متفرق و پراگندہ کرنا۔
 ذَاذَهُ (ن) ذَوْذًا: اوڈیٹاڈا۔ رفع کرنا۔ ہٹانا۔
 وحسارہ: کہا جاتا ہے ”ذَاذُ الإِبِلِ عَنِ الصَّاءِ“ اس نے اونٹوں کو پانی سے ہٹا دیا۔ (ذَوْدًا) عَنْ حَسَبِهِ: بھانا۔ حماقت کرنا۔ صفت (ذَائِدٌ) ج ذَوْدُو ذَوْدًا: اوڈاڈا۔
 أَدَاذًا: اوڈاڈا۔
 رَتَا: الذَّوَادُ: بہت دفع کرنے والا۔
 الصَّدَادُ: چراگاہ۔

المذْوَدُ: سویلیوں کا تھان۔ جس سے کسی چیز کو ہٹایا جائے۔ تیل کا سیتک۔ زبان۔
 رَجَالٌ (مُذَاوِدٌ وَمُذَاوِدٌ) قَائِلٌ مَعْدَاثُ چیزوں کی حماقت کرنے والے لوگ۔
 المذْوَرُ: مٹی۔
 المذْوَرَةُ: پرندے کے پونے کا گلا حصہ جس میں پانی رہتا ہے۔
 المذْوَرُوزُ: تھوڑا۔ کہا جاتا ہے ”مَا أَغْظَاهُ ذَوْرُوزًا“ اس نے اسے تھوڑا سا بھی نہیں دیا۔
 ذَاظَةُ (ن) ذَوْظًا: سخت گلا گھونٹنا۔
 الإِنَاءَةُ: بھرننا۔
 ذَوْظُ (س) ذَوْظًا: چھوٹی چھوٹی ٹھوڑی والا ہونا۔ صفت (أَذَوْظُ)
 المذْوِظَةُ: زروچیہ والی کڑی۔ ج أذَوْظًا۔
 المذْوِطُ: اونٹنی اور درجہ کے لوگ۔
 إِذَاعُ (ن) ذَوْعًا: مائلہ: سب کچھ پراگندہ کر دینا۔
 إِذَاعُ إِذَاعَةٌ: القَوْمُ بِمَا فِي الْحَوْضِ: قوم کا سارے پانی پینا۔ الرَجُلُ بِمَا لَهُ: لے جانا۔
 ذَاظُ (ن) ذَوْظًا: کشادہ قدم رکھتے ہوئے چلنا۔
 المذْوَفَانُ: زہر۔
 ذَاقُ (ن) ذَوْقًا وَذَوْاقًا وَمَذَاقًا الشَّيْءُ: چکھنا۔
 العَدَابُ: عذاب برداشت کرنا۔
 الرَجُلُ وَمَا عِنْدَ الرَجُلِ: آزمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَا ذَاقَ ذَوْاقًا“ اس نے کچھ نہیں چکھا۔
 تَذَوَّقُ الشَّيْءُ: تھوڑا تھوڑا چکھنا۔
 تَذَوَّقُ: القَوْمُ الشَّيْءُ: چکھنا۔ کہا جاتا ہے ”تَذَوَّقُوا الرِّمَاحَ“ انہوں نے نیزوں کو سنبھالا۔
 اسْتَذَاقَهُ: آزمائش کرنا۔ تجزیہ کرنا۔ لَهُ الأَمْرُ: آسانی سے حاصل ہونا۔ اسی سے ہے ”لَا يَسْتَذِيقُ لِي الشَّيْءَ إِلا فِي فَلَانٍ“ میرے لیے شہری آمد نہیں ہوتی مگر فلاں کے حق میں۔
 الذَّوْقُ وَالذَّائِقَةُ: چکھنے کی قوت۔
 الذَّوْقُ وَالذَّوْقُ: طبیعت۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ حَسَنُ الذَّوْقِ لِلشَّيْءِ“ اس کی طبیعت شعر کے لئے زیادہ موزوں ہے الذَّوْقُ: مزہ۔ کہا جاتا ہے ”ذَوُّهُ طَيِّبٌ“ اس کا مزہ اچھا ہے۔
 المَذَاقُ: مزہ۔ کہا جاتا ہے ”مَذَّ اللهُ طَيِّبٌ“ اس کا مزہ اچھا ہے۔ ”وَهُوَ مَرُّ المَذَاقِ“ وہ کڑوے مزہ

کابے۔
 الذَّوْبِلُ: خشک گھاس وغیرہ۔
 الذَّانُ: عیب۔
 التَذْوَنُ: تو انگریز نعت۔
 ذَوِي (ض) وَذَوِي (س) ذَوِيًا: التَّبَاتُ: نباتات کا پڑھ مرہ ہونا۔
 أَذْوِي أَذْوِيًا: پڑھ مرہ کرنا۔
 الذَّوِي: بکری کے چھوٹے بچے۔
 الذَّوَاةُ: خربوزہ یا انگور وغیرہ کا چھلکا۔
 اسم اشارہ مؤنث ہے قریب کے لیے۔
 ذَيْتٌ ذَيْتٌ أَوْ ذَيْتٌ وَذَيْتٌ: بات چیت یا فعل کیلئے کنایہ ہے جیسے ”قُلْتُ لَهُ ذَيْتٌ ذَيْتٌ“ میں نے اس سے ایسا ایسا کیا۔ ”فَعَلْتُ ذَيْتٌ ذَيْتٌ“ میں نے ایسا ایسا کیا اور اسی کے مانند (ذَيْتًا) ذَبَابٌ ذَيْبَةٌ ذَيْبَةٌ: ہیں۔
 ذَاخُ (ض) ذَبَابًا: الصَّاءُ پانی پینا۔
 ذَايَبَةٌ مَذَابَةٌ: کسی کے ساتھ ہو کر پینا۔
 ذَيْبَخْتُ: التَّخَلُّةُ: گامخانہ لگانا۔
 إِذَاخُ إِذَاخَةٌ: بالمسكان: گرد گرد گھومنا۔
 بِنِي فَلَانٍ: ذیل کرنا۔
 الذَّبِيخُ: دیر بھیرنا۔ زیادہ ہلانا۔ والا۔ زَبَجُو: مؤنث ذَبِيخَةٌ: عمدہ گھوڑا۔ تکبر۔ ایک سرخ رنگ کا ستارہ۔ ج أذْبَاخُ وَذَبُوخُ وَذَبِيخَةٌ: ذَاوُ ذَبَاذُهُ ذَبَاوُ: ناپسند کرنا۔
 الذَّبِيوَةُ: مٹی ملا ہوا گوبر۔
 ذَاغُ (ض) ذَبَعًا وَذَبُعًا وَذَبَعًا: الخَبِيرُ: پھیلنا۔ اور کہا جاتا ہے ”ذَاغُ فِي جِلْدِهِ الخَبِيرُ“ اس کے جسم میں کھلی پھیل گئی۔
 إِذَاغُ إِذَاغَةٌ: الخَبِيرُ بِالخَبِيرِ: پھیلانا۔
 البَسْرُ بالبَسْرِ: ظاہر کرنا۔ القَوْمُ مَا فِي الخَوْضِ: او بظا فیه: سارا پی لینا۔
 بالشَّيْءِ: لے جانا۔
 إِذْذَاعُ الخَبِيرِ: پھیلانا۔
 المذْبِياعُ: راز کی حماقت نہ کرنے والا۔ ج مَذَابِيغُ: تم کھتے ہو ”فَلَاذٌ لِلأَسْرَامِ مَذَابِيغُ“ وَ لِلأَسْبَابِ مَصْبِياعُ“ فلاں بھیدوں کو بہت ظاہر کرنے والا اور اسباب کو بہت ضائع کرنے والا ہے۔

<p>اس کا حال اچھا ہو گیا اور مال بڑھ گیا۔ ثَوْبٌ (مُدَّالٍ أَوْ مُدَّيْلٍ) لہجے دامن کا کپڑا۔ المُدَّالَةُ - باندی۔ لونڈی۔ اور مثل ہے ”أَخْبِلَ مِنْ مُدَّالِيَةٍ“ باندی سے زیادہ منگبر۔ اس لئے کہ اس کی اہانت کی جاتی ہے اور وہ اپنی حماقت سے ناز و انداز سے چلتی ہے۔ ذَنْعٌ مَدَالَةٌ: لمی زره۔ أَرْضٌ مُتَدَيِّلَةٌ زمین جس پر ہلکی سی بارش ہو۔ الجُدَيَالُ لہجے دامن والا (فد کرو موت) ذَامَةٌ (ض) ذَيْمًا وَ ذَامًا - عیب لگانا۔ نَمَتَ كَرًا - صفت (مَلُونِيمٌ وَمَدْيُونٌ) الذَّامُ وَالذَّيْمُ - عیب۔ نَمَتَ - اللُّؤِينُ - عیب۔</p>	<p>_____ المَرْأَةُ قَتَا حَتْمًا: عورت کا برقع کو لگانا۔ _____ الدَّمْعُ: آنسو برانا۔ تَدَيَّلَ - لمی الکلام: گستاخی کرنا۔ الجَوَارِيَةُ: لڑکی کا دامن کھینچنے ہوئے ناز سے چلنا _____ الفَرْسُ فَمِنْ إِسْتِنَابِهِ: گھوڑے کا دوڑنے میں خوشی سے ذم ملانا۔ تَدَايَلَ - حَالَهُ: پست و فروتر ہونا۔ الذَّيْلُ - چیز کا آخری حصہ۔ ذَيْلُ الثَّوْبِ: دامن۔ ذَيْلُ الرِّبِيْعِ: ریت پر ہوا کے نشانات۔ ذَيْلُ الفَرْسِ: ذم یا ذم کا لٹکا ہوا حصہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ فِي ذَيْلِ ذَائِلٍ“ وہ بڑی سخت زلت میں ہے۔ رَجَ أَدْيَالٍ وَ ذَيْوَلٍ وَ أَدْيَلٍ - أَدْيَالُ النَّاسِ وَ ذَيْوَلُهُمْ: آخر کے لوگ۔ الذَّايِلُ - قَا - دامن دار۔ ذَنْعٌ ذَائِلٌ أَوْ ذَائِلَةٌ: لہجے دامن والی زره۔ کہا جاتا ہے ”عَالَ ذَيْلُهُ“ یعنی</p>	<p>الذَّيْفَانُ وَالذَّيْفَانُ - مسلک زہر۔ ذَانٌ (ض) ذَيْلًا - الثَّوْبُ: کپڑے کا لہا ہونا۔ دامن دار ہونا _____ الطَّائِرُ: پرندہ کا ذم کو کھینچنا یا پھیلانا _____ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا رالوں پر ادھر ادھر رانا _____ الجَوَارِيَةُ: لڑکی کا دامن کھینچنے ہوئے ناز سے چلنا _____ الشَّيْءُ: ادنیٰ ہونا۔ حَالَهُ: پست و فروتر ہونا _____ فَلَانٌ إِلَى فَلَانٍ: گستاخی کرنا۔ ذَيْلُ الثَّوْبِ: کپڑے کا لہا کرنا۔ الْكِتَابُ: کتاب کے آخر میں کچھ بڑھانا۔ أَذَالَ إِذَالَةً وَ أَدْيَلُ إِدْيَالًا - الثَّوْبُ: دامن والا ہونا _____ الرَّجُلُ نَوْنَهُ: کپڑے کا دامن بنانا۔ دامن لہا کرنا۔ مَالَهُ: خرچ کرنا _____ ۵: اہانت کرنا _____ فَرَسَهُ وَ غَلَامَهُ: لاپرواہی کی وجہ سے دھلا کرنا۔</p>
---	--	---



رَأْسُ الشَّهْرِ أو العَامِ: مَبْنِيٌّ يَأْسَلُ كَأَسْلَادِنِ -
اور کہا جاتا ہے "فَعَلَتْ رَأْسًا" اس نے اس کام کو
ابتداءً کیا۔ "وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ رَأْسًا عَلَيَّ رَاسٌ"
اس عورت نے بچے بعد دیگرے تین بچے جنے۔
و "زَيْمِثٌ مِّنْكَ فِي الرِّاسِ" تیری رائے
میرے حق میں ایسی بڑی ہوئی کہ تو میری طرف
دیکھتا بھی نہیں۔ و "هَذَا قِسْمٌ بِرَأْسِهِ" یہ مستقل
ایک قسم ہے۔ و "أَنْتَ عَلَيَّ رَأْسٌ أَمْرُكَ" تو
اپنے کام کے سرے پر ہے۔

رِئَاسٌ - السَّنِيفُ: تَلَوَارٌ كَاتِبَةٌ -
کہا جاتا ہے "أَنْتَ عَلَيَّ رِئَاسٌ أَمْرُكَ" تو اپنے
کام کے سرے پر ہے۔

الرِّئَاسُ - نَا - حَاكِمٌ - جِ رِئَاسٌ -
الرِّئَاسُ وَ الرِّئَاسُ - سِرْدَارِ قَوْمٍ - جِ رِئَاسٌ -
رِئَاسَةٌ -

الرِّئَاسُ - مَسْتَحْكَمٌ سِرْدَارِي وَالا -
الرِّئَاسُ - وَادِيوں کی بلندیاں - اگلے بادل -
وَاصِدٌ رِئَاسَةٌ -

الرِّئَاسُ - سَرِيٌّ يَبِيعُهُ وَالا -
الرِّئَاسُ - بَرٌّ سِرْدَارِ - مَوْثِقٌ رِئَاسَةٌ -
الرِّئَاسِيُّ - بَرٌّ سِرْدَارِ -

الرِّئَاسُ - مِّنَ الخَيْلِ: وَهْ غَمُورًا جِ رِئَاسٌ وَالا -
میں دو سرے گھوڑوں کے سر کو کاٹنے - گھوڑوں
میں آگے بڑھنے والا -

الرِّئَاسُ - جَنَكٌ سِجْرَانَةٌ وَالا -
الرِّئَاسُ - رَعِيَةٌ - مَلُومٌ - بَرٌّ سِرْدَارِ
وَ الرِّئَاسُ - وَهْ مَعْصُومٌ جِسْرِيٌّ زَعْمٌ
لِغَاوِ -

الرِّئَاسُ - شِيرٌ -
رَأْفٌ (ف) رَأْفٌ وَ رَأْفٌ (ك) رَأْفٌ وَ رَأْفٌ

تَمَلَّكْنَا _____ الفُضْنُ: جَمَلْنَا _____ العُنُقُ:
گردن کا پھیرا ہونا (تَوَادُّو وَ تَوَادُّو) الضَّحَى:
روشنی پھیلنا۔ دن چڑھنا۔

رَأْدٌ وَ رَأْدٌ: الضَّحَى: أَمَّابٌ جِ رِئَاسٌ وَالا -
روشنی پھیلنے کا وقت۔ والرَّادُ: كَانُ كِ عِيْجِي
جِزے کی ابھری ہوئی جڑ۔

الرَّادُ: هِمٌّ عَمْرٌ - كَمَا جَاتَا سِ "هَذَا رِئَاسِي" يِه مِيرَا
ہم عمر ہے۔ درخت کا پودہ۔ جِ رِئَاسٌ -
الرَّادُ وَ الرِّئَاسَةُ وَ الرِّئَاسَةُ: خُوبِصُورَتِ
نوجوان عورت۔ الرِّئَاسَةُ: نَرِي سَمُولَتِ - كَانُ كِ
نیچے جڑے کی ابھری ہوئی جڑ۔

رَأْرَأٌ - عَمَلِيٌّ مِثْرَانٌ - تَمِيرٌ دَكِيمَانٌ - رَأْرَأٌ بِعَيْتِيهِ
آنکھیں پھرانا۔ صفت مذکر (رَأْرَأٌ) صفت مؤنث
رَأْرَأٌ وَ رَأْرَأَةٌ وَ رَأْرَأَةٌ وَ رَأْرَأَةٌ _____
الطَّبِيئَانَةُ: ہر نیوں کا دم بلانا _____ السَّحَابُ
السَّحَابُ: بَادِلٌ يَأْسُرَابٌ كَمَا جَمَلْنَا _____ الرِّجْلُ
پڑھنے یا بولنے میں حرف رازیدہ ہونا۔

رَأْسٌ وَ رَأْسٌ: رِئَاسَةٌ - رِئَاسَةٌ - سِرْدَارِ قَوْمٍ
رَأْسٌ (ف) رَأْسٌ: سِرٌّ پَرَّ زَعْمٌ بِمِجْمَانَا
السَّيْلُ العُفَاءُ: سِيْلَابٌ كَاوْرَا كَرَكْتِ جَمْعُ كَرَا -

رِئَاسٌ - رِئَاسَةٌ - سِرْدَارِ سِرْدَارِ -
رَأْسَةٌ - سِرْدَارِ رِئَاسَةٌ -
رِئَاسٌ وَ رِئَاسٌ - سِرْدَارِ سِرْدَارِ -

رِئَاسَةٌ: كَرْدَانٌ جِ رِئَاسَةٌ - سِرْدَارِ رِئَاسَةٌ -
رِئَاسَةٌ: كِسِي جِزے کے سرے پر سوار ہونا۔
الرِّئَاسُ - سِرٌّ جِ رِئَاسَةٌ وَ رِئَاسَةٌ وَ رِئَاسَةٌ
آر اس۔ اس کا اطلاق ہر ذی روح کے لیے ہوتا
ہے اور اکثر جانوروں کے لیے جیسے اَنْعَامٌ رِئَاسَةٌ
مِنَ العُتَمِ - الرِّئَاسُ: جِزے کی چوٹی۔ سِرْدَارِ قَوْمٍ -

رَأْبٌ (ف) رَأْبٌ - الضَّدْعُ: بَعْضِنِ دَرَسَتِ
کرتا۔ حرمت کرتا۔ الشَّقِي: جَمْعُ كَرَمِ
بانہرنا۔ يَتَنَبَّهُمُ: صِلِحُ كَرَامَا -

رَأْبٌ الأَرْضُ: سَبْرِي كَاثِ لِيْنِ كِ بَعْدِ
سر بہر ہونا۔
رَأْبٌ إِزَابَا - الضَّدْعُ: بَعْضِنِ دَرَسَتِ كَرَامَا -
بِئُونَدُ كَرَامَا -

الرِّئَابُ: سِدٌّ - بَعْضِنِ - شِكَافٌ - سِرْدَارِ - جِ رِئَابٌ -
کہا جاتا ہے "كَفَى بِفُلَانٍ رَأْبًا لِأَمْرِكَ" فُلَانٌ
تہمارے امر کو درست کرنے والا کالی ہے۔ (اس
جملہ میں مصدر بمعنی اسم فاعل ہے)

الرِّئَابَةُ: كَلْبِيٌّ وَغَيْرُهُ كَاوْرَا - جِسْرِيٌّ سِ
درست کیا جائے۔ سوراخ بند کرنے کی چیز۔ گارٹھا
دودھ۔ رات کا گزرنا ہوا وقت۔ حاجت۔ جِ رِئَابٌ
وَ رِئَابَةٌ - كَمَا جَاتَا سِ "هَذَا رِئَابِي فُلَانٌ" وَهْ
بِوَفْلَانِ كِ أَمُورٌ كَاوْرَا دَرَسَتِ كَرَامَا -

الرِّئَابُ وَ المِزَابُ: دَرَسَتِ كَرَامَا -
رَأْبِلٌ رَأْبِلَةٌ - اِيَكٌ جَانِبٌ كُو جَمَلْنَا سِ
گویا کہ ننگے پیر چلنے کی وجہ سے تکلیف ہے۔
رِئَابِلٌ - القَوْمُ: جِوْرِيْنَا _____ عَلِيْهِ: لُوبُ
وَالا -

الرِّئَابِلُ وَ الرِّئَابِلُ: شِيرٌ - مِثْرَانٌ - جِ رَأْبِلٌ
وَ رَأْبِلٌ وَ رَأْبِلَةٌ وَ رَأْبِلَةٌ - الرِّئَابِلُ - اَكْلُوتَا
لِزَا -

الرِّئَابِلُ: مَنُورٌ كَاوْرَا -
رِئَابِلٌ (ك) رِئَابِلٌ - الفُضْنُ: نَشِي كَاوْرَا
بَسْتِ نَاكٌ ہونا۔ صفت (رِئَابِلٌ)

رِئَابَةٌ - الرِّئَابُ: ہوا کا ادھر ادھر چلنا۔ تَوَادُّ
الرِّجْلُ: اُنْجَمٌ مِثْرَانٌ - (وَ رِئَابَةٌ)
العُلَامُ: خُوشِ مِشِي كِ وَجْهٌ سِ لُوكِ كِ بَدَنِ كَا

رِئَابَةٌ - الرِّئَابُ: ہوا کا ادھر ادھر چلنا۔ تَوَادُّ
الرِّجْلُ: اُنْجَمٌ مِثْرَانٌ - (وَ رِئَابَةٌ)
العُلَامُ: خُوشِ مِشِي كِ وَجْهٌ سِ لُوكِ كِ بَدَنِ كَا

رِئَابَةٌ - الرِّئَابُ: ہوا کا ادھر ادھر چلنا۔ تَوَادُّ
الرِّجْلُ: اُنْجَمٌ مِثْرَانٌ - (وَ رِئَابَةٌ)
العُلَامُ: خُوشِ مِشِي كِ وَجْهٌ سِ لُوكِ كِ بَدَنِ كَا

(س) زَأْفُو تَزَأْفُ بِهِ: بہت مرہلی کرنا۔ صفت
(زَوُوفٌ وَزَوُوفٌ وَرَأْفٌ وَرَأْفٌ وَزَأْفٌ وَزَأْفٌ)
تَزَأْفُو: آپس میں مرہلی کرنا۔

زَأْفُو وَاسْتَزَأْفُو: مرہلی کرنا۔ مرہلی کرنے پر
براہِ گیت کرنا۔

الزَّأْفُ: شراب۔

اسْتَزَأْفُ: الزَّأْفُ: شتر مرغ کے بچے کا قوی و
مضبوط ہونا۔ التَّبَاتُ: لہی ہونا۔

الزَّأْفُ: شتر مرغ کا بچہ۔ مَوْنَسُ زَأْفُو: جِ رِئَالِ
وَأَزْوَلٌ وَرِئَالَانٌ۔ رِئَالَةٌ: کہا جاتا ہے "خَوْدُ
زَأْفُو" یعنی وہ گھبرا گیا۔

الزَّوَالُ: گھوڑے کے منہ کے جھاگ۔

الزَّوَالُ وَالزَّوَالُ: دانوں کے نیچے زائد لکھا
ہو ادانت۔ نَعَامَةٌ (مُزَيَّلَةٌ): بچے والی مادہ شتر مرغ۔

المُزَيَّلُ: جلدی کرنے والا۔

زَأْمٌ (ف) زَأْمًا الخَبِيلُ: مضبوط ہونا۔

القِدْحُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔

زَمِيمٌ (س) زَأْمًا وَرِئَالًا: الخَبِيْضُ: زخم کا
انگور بندھنا۔ الشَّقِيُّ: نجات کرنا۔ اَلْقَتُ

کرنا۔ النَاقَةُ وَلَدَهَا: مرہلی ہونا۔ صفت
(زَالِمٌ وَزَالِمَةٌ وَزُؤْمٌ وَزُؤْمٌ): جِ زَوَالِمٌ: کہتے ہیں "ہو

زُؤْمٌ لِلصَّبِيْحِ" وہ ذلیل ہے۔ زلت پر راضی ہو
جانے والا ہے۔

أَرَأَمٌ أَرَأَمًا: الجرحُ: زخم کو علاج کر کے اچھا
کرنا۔ الخَبِيلُ: رستی کو مضبوط ہونا۔

هَ عَلِيٍّ الْأَمْرُ: مجبور کرنا۔ النَاقَةُ:
اونٹنی کو دوسرے کے بچے پر مرہلی کرنا۔

تَرَأْمَةٌ وَتَرَأْمٌ عَلَيْهِ: مرہلی ہونا۔

الرَّائِمُ: سفید ہرن۔ جِ أَرَأَمٌ وَأَرَامٌ: مَوْنَسُ
رِئَالَةٌ۔

الزَّوَامُ: لعاب۔

الزَّوَالِمُ: دیگ دان کے پائے۔

الزَّوَامُ: اونٹ کا بچہ۔ اونٹ کے بچے کا چھڑا جس
میں بھوسہ بھریا گیا ہو۔

الزَّوَالِمُ: دیر کا حلقہ۔

زَأَى يَزِي رَأْيًا وَزَوَيْتُهُ وَزَأَةٌ: وَرِئِيَانًا۔
بصارت یا بصیرت سے دیکھنا۔ يَزِي كِي اَصْلُ
يَزِي ہے اور اصل کا استعمال نادر ہی ہوتا ہے۔

اور امر کا صندز ہے۔ کہا جاتا ہے "يَأْتُرِي وَيَأْتَاهُلُ
تُرِي" یعنی اسے غصہ کیا تو گمان کرتا ہے؟ اور
مضارع کا صندز گمان کے معنی میں مجمل ہی بنا گیا
ہے۔

زَأَةُ الشَّقِيِّ: دیکھنا۔

زَأَى (ف) زَأِيًا: الزَّجَلُ: پھینچنے پر مارنا
الزَّيْدُ: جھمکانے سے آگ نکالنا۔

الزَّيْدُ: آگ لگانا۔ الزَّيْبَةُ: جھنڈا
گاڑنا۔

زَأَيْتُهُ تَزَيْتُهُ: خلاف حقیقت دکھانا۔

زَأَى يَتَزَاةً أَوْ رِئَالًا: خلاف حقیقت دکھانا۔
وَزَأَيْتُهُ مَزَاةً أَوْ: باہم مشورہ کرنا۔

أَزَاى إِزَاةً: عجل ورائے والا ہونا۔ چہرے
میں حماقت ظاہر ہونا۔ آئینہ میں دیکھنا۔ دکھلاوے

کے لیے کام کرنا۔ پھینچنے کے درو والا ہونا۔ بہت
خوش منظر ہونا۔ دیکھنے کے وقت پکوں کو بلانا

الزَّيْبَةُ: جھنڈا گاڑنا۔ الخَابِلُ مِنْ
غَيْرِ ذَوَاتِ الخَابِرِ وَالتَّسْبِيْحِ: تھن سے حاملہ

معلوم ہونا۔ صفت (مُزَيَّلَةٌ)

أَزَاهُ يَزِيهِ إِزَاةً أَوْ إِزَاةً الشَّقِيُّ: دکھانا۔ صفت
نکر (مُرِي) صفت مَوْنَسُ مُرِيَةٌ: کہا جاتا ہے "أَرُوْنِي

بِزَأَيْكَ" مجھے مشورہ دو۔ و "أَزَى اللهُ بِنُفْلَانٍ"
اللہ تعالیٰ فلاں کو عذاب دیں اور اس کے دشمن کو

دو دکھلائیں جس پر وہ خوش ہو۔

تَزَاى وَتَرَاى: یعنی المِزَاةُ: آئینہ میں دیکھنا۔
تَزَاى وَتَرَاى لَهُ: دیکھنے کے درپے ہونا۔

وَتَرَاى النَّاسُ: ایک دوسرے کو دیکھنا۔ اور کہا
جاتا ہے "تَرَاى يَتَأَي الْأَمْرُ" ہم نے معاملہ میں

غور کیا۔ و "تَرَاى بِرَأَى فُلَانٍ" وہ فلاں کا ہم خیال
ہو گیا۔ و "تَرَاى لِي أَنْ الْأَمْرُ كَيْفَتْ كَيْفَتْ"
میرے لئے یہ ظاہر ہو گیا کہ معاملہ ایسا ہے۔ و

"تَرَاَيْتُمَا الْهَيْلَانَ" ہم نے چاند دیکھنے کی کوشش
کی۔

أَزَتَاى: الْأَمْرُ غُورُ كَرْنَا: سوچنا۔
اسْتَزَأَى: دیر چاہنا۔ رائے طلب کرنا۔ کہا

جاتا ہے "اسْتَزَأَيْتُهُ وَاسْتَزَأَيْتُهُ" استزأى
بِالمُزَيَّلَةِ: آئینہ سے دیکھنا۔

الزَّوَامُ: رائے۔ اعتقاد۔ تم کہتے ہو "زَالِمِي كَذَا"

میرا اعتقاد ایسا ہے۔ تہذیب کی رسائی۔ جِ آزاء
وَأَزَاءُ۔

الرَّوْى وَالرَّوْى وَالرَّوْءَاءُ وَالرَّوْى: منظر اور حسن
منظر۔

الرَّوْى: خواب جِ زَوْى: کہا جاتا ہے "جَاءَ
جِيْنٌ رَوِيًّا وَرَوِيًّا أَوْ رَأْيًا" وہ اس وقت آیا جبکہ

تاریکی خوب ہوگی۔

الرَّوْىةُ: آنکھ یا دل سے دیکھنا۔ جِ زَوْى:
الرَّوْىةُ: دیکھنا۔

الرَّوْءَاءُ: بد۔ حقیقت کے خلاف دکھانا۔ کہا جاتا
ہے "فَعَلَّ ذَلِكَ رِئَاءً" اس نے اس کو نمود اور

دکھانے کے لیے کیا۔ اور کہا جاتا ہے "هَمْ رِئَاءُ
أَلْفٍ" وہ لوگ دیکھنے میں تقریباً ہزار ہیں۔ و "فَوُؤْمٌ

رِئَاءًا": ایک دوسرے کے مقابل قوم۔ و
"ذُوؤْمٌ رِئَاءًا": ہمارے گھر ایک دوسرے کے

مقابل ہیں۔

التَّزَيْتَةُ: منظر یا حسن منظر۔

الرَّوْءَاءُ: بہت دیکھنے والا۔

الرَّوْءَةُ: پھینچنا۔ جِ رِئَاتٌ وَرِئَاتٌ وَرِئَاتٌ
کے لیے (رِئَوِيٌّ)

رِئَوِيٌّ: قوم کا سردار جس کی رائے سے
سب اتفاق کریں۔ الرِّئِيُّ: بڑا سانپ۔ کپڑا جو

خریدار کے سامنے پھیلایا جائے۔ هُوَ (أَزَاى)
بِكَذَا: وہ اس کے لائق ہے۔

المِزَاةُ: آئینہ۔ جِ مَزَاةً وَمَزَاةً: اس سے فعل
کا اشتقاق کرتے ہیں جیسے يَتَمَزَأُوْنَ یعنی وہ آئینہ

میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے (اس کو سیویہ نے بیان کیا
ہے)

المِزَاةُ وَالمِزَاةُ: منظر۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
مَزَاةً بِكَذَا" وہ اس کے لائق ہے۔ و تُجْزَعُنِ

مَنْجُوْلُهُ مَزَاةً: اس کا ظاہر باطن پر دلالت کرتا
ہے و "هُوَ مِزِيٌّ مَزَاةً وَ مِشْمَعٌ أَوْ مِزَاةً وَ

بِمِشْمَعٍ" وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اس کو دیکھ
سکتا اور اس کی بات سن سکتا ہوں۔

رَبٌّ (ن) رِئَابًا: القَوْمُ: بلا دست ہونا۔ انتظام
کرنا۔ البِغْمَةُ: زیادہ کرنا۔ الشَّقِيُّ:

جمع کرنا۔ مالک ہونا۔ الْأَمْرُ: کسی کام کو
درست کرنا۔

الرَّبْصِ - كافر کی ایک قسم۔
 الرَّبْصِ وَالرَّبْصِ - زبرد - کبری کا بچہ - اونٹ کا بچہ - رُبْرَبِجِ
 مَفْجُورِ (رَبِيعِ) فائدہ مند تجارت۔
 الرَّبِيعُ - بڑے ذیل ڈول والا - مَوْنُثِ
 رِبْخَلَةٍ۔
 رَبِيعِ (س) رِبْعَا - البَعِيْرُ : اونٹ کا ریت میں
 مشکل سے چلنا (رِبْعَا وَرُبُوْحَا رِبَاخًا)
 المرأة : جماع کے وقت شدت شہوت سے
 عورت کلبے ہوش ہو جانا۔
 اَرْبِيعُ - الزَّمَلُ : بے ہوش ہونا۔ الزَّمَلُ :
 سختیوں میں مبتلا ہونا۔
 تَوْبِيعُ الزَّمَلِ : سست ڈھیلا ہونا۔
 التَّوْبِيعُ : بڑا پالان۔
 الزَّبُوْحُ : جماع کے وقت شدت شہوت سے
 بیہوش ہو جانے والی عورت۔
 رَبْدَةٌ (ن) اَرْبُودًا : بالمَكَانِ : اقامت کرنا۔
 رَبْدَةٌ (ن) اَرْبُودًا : روکنا - منع کرنا۔
 رَبْدَةُ اِلَيْلٍ : اونٹ کو باڑہ میں باندھنا۔
 رَبَّدَتِ - الشَّاةُ : تھن میں سیاہ سفید داغوں
 والی ہونا۔ تَوْبَدَّ الضَّنْبُغُ : تھن کا سیاہ سفید داغ
 والا ہونا۔
 تَوْبَدَّتِ - السَّمَاءُ : آسمان کا ابر آلود ہونا
 الزَّمَلُ : تیوری چڑھانا۔ اللَّوْنُ :
 رنگ بدل جانا۔
 اَرْبَدًا اَرْبَدًا وَاَرْبَادًا اَرْبِدًا اَدَا - خاکسری
 رنگ والا ہونا۔
 الزَّيْدُ - مہ - ایک قسم کی نباتات۔
 الزَّيْدُ - گوارا کا جوہر۔
 الزَّيْدُ - مہ - ایک قسم کی نباتات۔
 الاَرْبَدُ - خاکسری رنگ والا - عَامًا اَرْبَدُ : قحط
 والا سال۔ مَوْنُثِ رَبْدَاءُ - الزَّيْدَاءُ : سخت و
 شہید - کہا جاتا ہے "ذَاهِيَةٌ رَبْدَاءُ" - بلائے بد - ج
 زَيْدُ - الاَرْبَدُ - ایک قسم کا زہریلا سانپ - ثِيْرُ
 المِجْرَدُ - اونٹ وغیرہ کا باڑہ - گھروں کے چیمبے کا
 میدان جو کام آئے - گھوڑے کی جگہ۔
 الزَّيْدُ - گھوڑے جن پر پانی چھڑکا گیا ہو۔
 الزَّيْدَةُ - دستاویز اور چک وغیرہ رکھنے کا

صندوق۔
 المَفْرُودُ - شیر۔
 رَبْدٌ (س) رَبْدًا - چلنے یا کام کرنے میں پھرتلا
 ہونا۔ صفت (رَبْدٌ) کہا جاتا ہے "هُوَ رَبْدُ الْعَيْنَانِ"
 وہ تھما بھاگنے والا ہے۔ مَوْنُثِ رَبْدَةٌ - بَقَّةٌ رَبْدَةٌ : کم
 گوشت والا سوڑھا۔
 اَرْبَدٌ - القَوْبُ او العَنْبَلُ : بکڑے یا رستی کو کاٹنا۔
 الرَبْدَةُ وَالرَّبْدَةُ - جھتھر جس سے شارزورات
 کو صاف کرتا ہے۔ کوڑے کا پھندا۔ رنگی ہوئی
 روٹی کا ٹکڑا جس کو اونٹ کے کان یا گردن میں
 لٹکاتے ہیں۔ اون جس سے اونٹ کی مالش کی جاتی
 ہے۔ شیشی کا سر بند۔ ج رِبْدُوْرِبَادُوْرَبْدُ۔
 الرَبْدَةُ - بے خبر آدمی - ہر پلیدی۔
 الرَبْدِيُّ - کمان کا چلہ - کوڑا۔
 الرَبْدِيُّ - بدی۔
 الرَبْدَانِيُّ وَالْمَرْبَادُ - بست یہودہ کہنے والا۔
 الرَبْرَبُ - تیل گائیوں کا گلہ۔
 الرَبْرُقُ - کونے۔
 رَبْرُوكُ (ك) رَبْرُوكًا - زبرک دوانا ہونا۔
 الكَبْشُ : مینڈھے کا فریہ ہونا۔
 رَبْرُوكُ القَرْبَةِ : مٹک بھرتا۔
 اِرْبَتَبَرُ الشَّيْءِ : پورا واکال ہونا۔
 الرَبِيْرُ - زبرک دوانا۔
 رَبْبَسَةٌ (ن) رَبْبَسًا - پینڈھو : ڈیٹھ مارنا۔
 () وَرَبْبَسٌ القَرْبَةِ : مٹک بھرتا۔
 اَرْبَسَةٌ اِرْبَسًا - غھپٹناک کر دینا۔
 اِرْبَسَتِ - العَنْقُوْدُ : گھٹے کا ایک دوسرے میں
 گھٹنا۔ ٹھوس ہونا۔
 اِرْبَسٌ اِرْبَسًا - مٹک میں جانا۔ فِئِنِ
 اَمْرُوهُ : تصرف کرنا۔ اَمْرُوهُمْ : کام کے
 خراب ہو جانے سے لوگوں کا متفرق ہو جانا۔
 الرَبْسُ - مہ - امر مٹک - بست - کہا جاتا ہے "جَاءَ
 بِمَالِ رَبْسٍ" وہ بست مال لایا۔
 الرَبْسَاءُ - سخت معصیت۔ ج رَبْسُ - "جَاءَ
 بِمَالِ رَبْسٍ" وہ مہ صاحب لایا۔
 الرَبْسُ - ہمارے - معصیت۔ دہتر مارا ہوا۔
 معصیت زدہ - ٹھوس۔ (اُمُّ الرَبْسِ) بڑا سانپ۔
 معصیت کی کنیت۔

الرَّبْسَةُ - مٹی کی پھلی بد بھیت عورت۔
 الرَبْسُ : چند رنگی مٹھنا ایک سبزی جس کا مزہ
 شیریں مائل کھٹا ہوتا ہے۔
 اَرْبَسُ الشَّجَرُ : سچے دار ہونا اور بقول بعض
 چھلدار ہونا۔
 الاَرْبَسُ : مختلف رنگوں والا۔ مَوْنُثِ رَبْسَاءُ -
 اَرْضُ رَبْسَاءُ : مختلف رنگوں کی بست گھاس والی
 زمین۔
 الرَبْسَاءُ - رنگوں کا اختلاف۔
 الرَبْسُ - نوجوانوں کے ناخنوں کی سفیدی۔
 رَبْصٌ (ن) رَبْصًا - بہ : کسی کے لیے خیر و شر کا
 انتظار کرنا۔ بڑائی پہنچانے کیلئے موقعہ کی تاک میں
 رہنا۔
 تَوْبِصٌ - انتظار کرنا۔ عَنِ الْاَمْرِ : رنگ
 جانا۔ فِي الْمَكَانِ : ٹھہرنا۔ يَفْلَانُ :
 بمعنی رَبْصٌ۔ بِسَلْعَتِهِ : گرانی کا انتظار
 کرنا۔
 الرَبْصَةُ - انتظار۔ رنگ برنگ۔
 رَبَّصَتْ (ض) رَبْصًا وَرُبُوْحًا وَرَبْصَةً -
 الدَّابَّةُ : جانور کا کھٹنے کے بل بیٹھنا۔ رَبْصُ الْاَسَدِ
 عَلٰی قَرْبَتَيْهِ او الْقَرْنِ عَلٰی قَرْبَتَيْهِ : دلوچ کر
 بیٹھنا۔
 رَبْصٌ (ن ض) رَبْصًا وَرُبُوْحًا - فُلَانًا او
 الْمَكَانَ : پتہ لینا۔
 رَبْصَةٌ بِالْمَكَانِ : ٹھہرنا۔ الدَّوَابُّ :
 جانوروں کو بیٹھنے کی جگہ میں روک رکھنا۔ بو بھل
 کر کے بھاڑ دینا۔ الشَّمْسُ : آفتاب کا
 سخت گرم ہونا یہاں تک کہ جانور کو بھاڑے۔
 تَوْرَبْصٌ - ضعف کی وجہ سے ٹھہرے رہنا۔
 الزَّيْبُضُ - فَا - (الزَّيْبَاضُ) - شیر۔
 الزَّيْبُضَةُ - رابض کا مَوْنُثِ - بڑے بڑے
 کاسوں سے عاجز۔ تک چپے کے لیے کہا جاتا ہے
 "اَرْبَسَتْ اَبْصَةً عَلٰی وَجْهِهِ"
 الرَّبْصُ وَالرَّبْصُ وَالرَّبْصُ وَالرَّبْصُ - بیوی۔
 بَسْنُ - ماں - کہا جاتا ہے "رَجُلٌ رَبْصٌ عَنِ
 الْاَسْفَارِ اَوْ عَنِ الْخَاجَاتِ" - یعنی سفر میں یا
 ضرورت کے لیے نہ نکلنے والا مرد۔
 الرَّبْصُ - عمارت کی بنیاد۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو

سے انسان کی حالت اچھی ہو۔

الزَّبَاعِيَّةُ۔ سامنے کے چار دانتوں اور پچھلوں کے درمیان والدانت۔ ج زَبَاعِيَّات۔

الزَّبَاعِي۔ وہ جانور جس کے رباعی دانت گر گئے ہوں۔ ج زُبُعٌ وَزُبُعٌ وَرَبْعَانٌ وَرَبَاعٌ وَزُبُعٌ وَرَبَاعٌ۔ مؤنث زَبَاعِيَّةٌ ج زَبَاعِيَّات۔

الزَّبَاعِيَّةُ۔ چار سے مرکب۔

الزَّبُعُ۔ ج أَرْبَعَةٌ وَرَبَاعٌ وَأَرْبَعَاءُ: موسم بہار۔ موسم بہار کی بارش۔ موسم بہار کی پیداوار۔ سبز چارہ۔ کہا جاتا ہے ”زُبُعٌ زَبَاعِيٌّ“ فراخی اور

ارزائی کا موسم بہار۔ ج أَرْبَعَاءُ وَزُبْعَانٌ: زمین کیلئے پانی کا حصہ۔ ج زُبُعٌ: چوتھائی۔

الزَّبُعِيُّ: مِنَ الْمَسَاكِينِ: موسم بہار کی اقامت گاہ۔

الزَّبُعِيَّةُ۔ پتھر جو طاقت کی آزمائش کے لیے اٹھایا جائے۔ باغ۔ لوہے کا خورد۔ توشہ دان۔ خوشبو وغیرہ رکھنے کا برتن۔

الزَّبُعُ۔ کزور۔ کینڈ۔

الزَّبُعِيَّةُ۔ پستہ قد۔ چار زانو بیٹھے والے کی نشست۔ اونٹ کے بچوں کی ایک بیماری۔

أَرْبَعَةٌ۔ چار۔ مؤنث أَرْبَعٌ۔ الرِّيَاحُ الْأَرْبَعُ: چھوٹی۔ پروائی۔ دھکنی۔ آری ہوائیں۔

قَوَائِمُ الْأَرْبَعِ: چار بارے۔

أَمْزِجُ وَأَرْبِعُنُ: ایک قسم کا کثیرا۔

الْأَرْبَعَاءُ: مثلثة الباء: بدھ کا دن۔ تنزیہ أَرْبَعَاوَانٌ: ج أَرْبَعَاءَاتٌ وَأَرْبَعَاوَاتٌ: قَعْدَةُ (الْأَرْبَعَاءُ وَالْأَرْبَعَاوَاتِي) وہ چار زانو بیٹھا۔

الْأَرْبَعَاءُ: ستون خانہ۔

أَرْبَعُونَ: چالیس۔

الْمَرْبِيعُ: موسم بہار کی بارش ()۔

وَالْمَرْبِيعُ ”موسم بہار کی اقامت گاہ۔“

الْمَرْبِيعُ وَالْمَرْبِيعَةُ: لکڑی جو جانور پر بوجھ لادنے کے لیے استعمال کی جائے۔

الْمَرْبِيعُ: موسم بہار میں بچھنے والی ادنیٰ۔

الْمَرْبِيعُ: چوتھا تجارت والا۔

الْمَرْبِيعُ: چار ستون والا یا چار ضلعوں والی شکل۔ حاصل ضرب جو کسی عدد کو اسی سے ضرب دے کر حاصل ہو چکے۔

۱۶×۳۳=۳

الْمَرْبِيعُ: وہ جگہ جہاں کی سبزی ابتدائی موسم بہار میں اگے۔ مال غنیمت کی چوتھائی جو زمانہ جاہلیت میں سردار لیا کرتا تھا۔ موسم بہار میں بچھ دینے والی ادنیٰ۔

() وَالْمَرْبِيعُ وَالْمَرْبِيعَةُ (درمیانہ قد۔

الْمَرْبِيعُ: ابتدائے موسم بہار کی بارشیں۔

الْمَرْبِيعُ: ایک قسم کا چوبچاش کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی بڑی ہوتی ہیں۔ ج مَرْبِيعٌ: زَبُعٌ (ف) زَبُعًا: الْقَوْمُ لِيَنِ التَّعِيمِ: خوشحال زندگی بسر کرتا۔

زَبُعٌ (س) زَبُعًا: عَيْشُهُ: فراخ و آسودہ ہونا۔

الزَّبُعُ: بدکار و شوخ چشم ہونا۔ صفت (زَبُعٌ)

زَبُعٌ (ك) زَبَاعَةٌ: بست ہونا۔

الزَّبُعُ: کثیر و کشادہ۔

زَبُعَةٌ (ن) زَبُعًا وَزَبُعَةً: پھندے سے باندھنا۔ وَفِي الْأَمْرِ: کام میں ڈالنا۔

وَزَبُعٌ الْكَلَامُ: جھوٹ سے مزین کرنا۔ کہا جاتا ہے ”زَبُعٌ الْوَجْلُ أَثْنَاءَ حَبْلِهِ وَأَرْبَاعُهُ“ مرنے اپنے بکری کے بچوں کیلئے رستی کا پھندا بنایا۔

تَوَزَّبَعُ: لنگنا۔ کہا جاتا ہے ”تَوَزَّبَعْتُ الشَّيْءَ لِيَنِ عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں لٹکایا۔

إِزْتَبَعْتُ: لِيَنِ الْجِبَالَةَ: لنگنا۔ لِيَنِ الْأَمْرِ: کسی کام میں پھنسا۔ اور اسی سے ہے ”إِزْتَبَعْتُ فِي حَبْلِي“ یعنی میں اس کے کمر و فریب میں پھنس گیا۔

الرَّبِيقُ: پھندوں والی رستی۔

الرَّبِيقَةُ وَالرَّبِيقَةُ: رستی کا پھندا۔ ج وَرَبِيقٌ وَرَبِيقٌ وَأَرْبَاقٌ: کہا جاتا ہے ”حَلٌّ رَبِيقَةٌ“ اس نے اس کے رنج و غم کو دور کر دیا۔ وَ”نَقَّضُوا الْجِبَالَ وَآكَلُوا الرِّبَاقَ“ انہوں نے عمد و پیمان توڑ دیئے۔

الرَّبِيقُ: پھندے سے باندھا ہوا پھندے میں پھنسا ہوا۔

الرَّبِيقَةُ: چربی سے ترکی ہوئی روٹی۔

الرَّبِيقِيُّ: بکری باندھنے کی رستی۔

أَمُّ الرَّبِيقِ: بلا۔

رَبِك (ن) رَبِكًا: الشَّقِيُّ: ملانا۔ الزَّبَيْكَةُ: گارا بنانا۔ ہ: بچھڑیں کرنا۔

رَبِك (س) رَبِكًا: بچھڑے و دشوار معاملہ میں پھنسا۔ صفت (رَبِكٌ وَرَبِيكٌ)

إِزْتَبَعْتُ: لِيَنِ الْوَجْلِ: بچھڑیں کرنا۔

فِي الْأَمْرِ: پھنس کے رہ جانا۔ لِيَنِ كَلَامِهِ: رُكٌ كَمَا كَلَّمُوا رَبِكًا: لِيَنِ الصَّنَدِ لِيَنِ الْجِبَالَةَ: شکار کا جال میں ترپنا۔

بِزَبْعَانِ: الْأَمْرُ: معاملہ کا بچھڑے ہونا۔

إِزْتَبَعْتُ لِيَنِ كَلَامِي: زَابِعٌ: رائے کا ٹکڑا ہونا جانا۔

الزَّبُعُ: كَلَمٌ: کام سے رک جانا۔

الزَّبَيْكَةُ: گارا۔ دودھ ماہو اگھمن۔ کہا جاتا ہے ”رَبَاهُ زَبَيْكَةٌ“ اس نے اس کو بچھڑے معاملہ میں پھنسا دیا۔

وَالرَّبِيكُ وَالرَّبِيكُ: ایک قسم کا کھانا جو پیچر، کھجور اور گھی ملا کر تیار کرتے ہیں اور کبھی پانی ڈال کر پیتے ہیں۔

الرَّبِيكُ: مِنَ الْأَبْلِ: کانا اونٹ۔

رَبَلٌ (ن) ض) رَبَلًا: الْقَوْمُ: بڑھتا۔ زیادہ تعداد والی ہونا۔ رَبَلَتْ الصَّرَاعِي: بست گھاس والی ہونا۔

رَبَلٌ وَأَرْبَلٌ: الْمَكَانُ: موسم خزاں کی جمادات والی جگہ ہونا۔

رَبَلٌ: بدکار ہونا اور بُرئاً کا شہر رہنا۔

تَوَرَّبَلٌ: لوگوں پر لوٹ ڈالنا۔

تَوَرَّبَلٌ: موسم خزاں کی سبزی کھانا۔ شکار کرنا۔

بست گوشت والا ہونا۔ ج شَمُهُ: پھولنا۔

الْأَرْضُ: موسم خزاں کی بست سبزی والی ہونا۔ موسم خزاں کے آنے پر خشک ہونے کے بعد سرسبز ہونا۔ تَوَرَّبَلٌ الْقَوْمُ: موسم خزاں کی سبزی چرانا۔

إِزْتَبَلٌ: مائلہ۔ بست ہونا۔

الزَّبَلُ: موسم خزاں کے پودے و سبزی جو بغیر بارش کے رات کی نمی کی وجہ سے پھولنے۔ ج زَبُولٌ۔

الزَّبَلُ: بست سبز رنگ کی ایک قسم کی گھاس۔

رَبَلٌ (رَبَلٌ) مَوْتَارِدٌ۔

الرَّبَلَةُ وَالرَّبَلَةُ: ران کی جڑیں۔ مونا گوشت۔

ج رَبَلَات۔

زندگی بسر کرنا۔۔۔۔۔ فی المکان: اقامت
کرنا اور فراموشی کے ساتھ کھانا پینا۔ صفت (زایع)
نَزَعَ وَزَعَّ وَرَنَعَ وَرَنَعٌ وَرِنَعٌ وَرِنَعٌ
فی مال فلان: دوسرے کے مال سے کھانے
پینے میں فائدہ اٹھانا۔ فی لحم فلان: غیبت کرنا۔
أَزَعَ: الفؤم: سرسبز زمین میں پھینا اور چرانا
الأرض: چرنے والے کو آسودہ کرنا
الغیش: بارش کا چارہ کو آگانا۔

الدواب: جانوروں کو چرانا۔
الزئعة: سبزے کی کثرت۔ اور اسی سے ہے
"أَسْمَنُ القیندو الزئعة" مجھ کو قید اور آسودگی
نے موٹا کر دیا۔

الزئع: آسودہ زندگی والا جس کو ہر چیز حاصل
ہو۔ کلا زئع: چرنے والے کے لیے کافی گھاس۔
الأزاع: من الناس: بہت لوگ۔ کہا جاتا ہے
"وَأَيْتَ أَزَاعًا مِنَ النَّاسِ" میں نے بہت
لوگوں کو دیکھا۔

الزئاع: سرسبز چراگاہ میں اپنے اونٹوں کو لے
جانے والا۔
المزئع: آسودہ زندگی والا جس کو ہر چیز حاصل
ہو۔

المزئع: چراگاہ۔
زَتَقَ (ن) زَتَقًا: الشَّوْبُ: جوڑنا۔
الفشَقُ: درست کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ الزَّائِقُ
الفائق" وہ اصلاح کرنے والا ہے۔ و "زَتَقَ
فَفَقَهُمْ" اس نے ان کے درمیان صلح کرادی
الشئی: بند کرنا۔

إِزْتَقَ: الشئی: چڑجانا۔
الزئاق: دو کپڑے جن کے کنارے جوڑ دیے
گئے ہوں۔

الزئقة: انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔
الزئوق: عزت و شرف۔

زَتَكَ (ض ن) زَتَكًا وَرَتَكًا وَرَتَكًا
البعیض: اونٹ کا چھوٹے چھوٹے قدم سے
دوڑنا۔

أَزَنَكَ: البعیر: اونٹ کو چھوٹے چھوٹے
قدم سے دوڑانا۔ أَزَنَكَ الصُّحْلَكَ: آہستہ ہلنا۔
المزئک: مردانگ۔

زَيْلٌ (س) زَيْلًا: الشئی: عمدہ نظم و ترتیب سے
ہونا۔ صفت (زویل)
زَيْلٌ: الكَلَامُ: اچھی طرح ترتیب دینا۔
القرآن: قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر عمدہ طریقے
سے پڑھنا۔
تَوَزَّلَ: فِي القَوْلِ: ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح
بولنا۔

الزئل: ہ۔ عمدہ گفتگو۔ تاکہ ہے "كَلَامٌ
زَيْلٌ" خوبی۔ آراستگی۔ ہر چیز کی خوبی۔ نَفَرٌ زَيْلٌ:
خوبصورت ہوا رات۔

التزئیل: پڑھنے کے وقت آواز پست کرنا۔ آواز
کو عمدہ بنانا۔ مولدین کے نزدیک ترتیل آواز کو
پڑھنے یا گانے میں اس طرح بنانا کہ سارے حرف
اچھی طرح آدراہوں۔

الأزئل: اچھی ترتیب والا۔ تملانے والا۔
الزئلاء: کبڑے کوڑے وغیرہ جیسے کڑی
کسی وغیرہ۔ زئئلاءات: ایک قسم کی بناات
جس کے پھول سوسن کے پھول کی طرح ہوتے
ہیں۔

زَتَمَةٌ (ض) زَتَمًا: تُوْزِنًا: کونا۔۔۔۔۔ فی بیئ
فُلَانٍ: پرورش پانا۔ اور کہا جاتا ہے "مَا زَتَمَ
بِكَلِمَةٍ" وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ (۔۔۔۔۔ زَتَمًا)
رتم کے دانے کھانے سے بیوش ہونا۔ بہت ہونا۔
أَزْتَمَ وَتَوَزَّتَمَ وَإِزْتَمَ: یاد رکھنے کے لیے انگلی پر
دھاگا پھینا۔ أَزْتَمْتُ زَيْدًا: یاد آنے کیلئے میں نے
زید کی انگلی میں دھاگا باندھ دیا۔

الزئتم: ایک قسم کا درخت جس کے دانے مسور
کی مانند ہوتے ہیں۔ واحد (زئتمة) الزئتم: بھرا ہوا
توشہ دان۔ کمال حیاء۔ آہستہ گفتگو۔ راستہ۔
الزئام: بوسیدہ۔

الزئتمة: زئتم و زئام و الزئتمة (ج زئاتم)
دھاگا جو کسی مقصد کے یاد رکھنے کے لیے انگلی پر
پھیٹ لیا جائے۔

الزئیم: آہستہ چال۔ وہ شخص جس کو رتم کے
دانے کھانے سے بیوشی طاری ہوئی ہو۔ ج
زئامی۔

شَرٌّ تَوَزَّتَمَ وَتَوَزَّتَمَ: راہ کی نسا۔
زَتَنَ (ن) زَتَنًا: الشَّحْمُ بالعَجین: گندھے

ہونے آگے میں چھل ملانا۔
زَنَاهُ يَزُونُهُ وَتَوَانُوا ذُحُلًا: کرنا۔ باندھنا۔ القلب:
دل کو قوی کرنا۔۔۔۔۔ هَالِيَهُ: ملانا۔ الذئو: ذول
کو آہستگی سے کھینچنا۔ (۔۔۔۔۔ زَنُوا وَزَنُوا)
پڑا بہ: سر سے اشارہ کرنا۔۔۔۔۔ الزئجل:
قدم رکھنا۔

زئی: فی ذئعه: بہت باز ہونا۔
الزئوة: قدم بلند زمین۔ تھوڑا سا وقت۔ حد
نظر تک۔ کہا جاتا ہے "يَبْتَغُوا وَيَبْتَغُهُمْ زئوة"
ہمارے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے جو
مقدار حد نظر کے ہے۔

الزئی: دوسروں سے زائد علم والا۔
زئ (ض) زئًا: وَزئًا: الشَّوْبُ: کپڑے کا
بوسیدہ ہونا۔ صفت (زئ) ج زئاث۔
أَزئًا: زئًا: الشَّوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
پرانے کرنا۔

أَزئًا: زئی کو میدان جنگ سے لایا جانا۔
صفت (ض زئث)
الزئث: ہ۔ گھر کا ردی سلمان۔ ج زئاث۔ کہا
جاتا ہے "كَلَامٌ غَثٌّ زئثٌ" یعنی گھیا درجہ کا
کلام۔

الأزئث: بوسیدہ۔ پرانا۔
الزئث: بوسیدہ۔ پرانا۔ زئی نیم ٹمڑہ۔
الروثہ: گھر کا ردی سلمان۔ ج زئث و رثاث۔
کمزور لوگ۔

الزئاة: ہ۔ کھٹکی۔ بوسیدگی۔
زئ (ف) زئًا: اللئین: دودھ کا دھبہ بنانا۔ گاڑھا
کرنا۔۔۔۔۔ الشئی بالشئی: ملانا۔
غضبه: غصہ کا ٹھنڈا پڑنا۔

أَزئًا وَإِزئًا: اللئین: دودھ کا گاڑھا ہونا۔
إِزئًا: زئیہ: رائے میں گڑبڑی کرنا۔ إِزئًا
عَلَيْهِمْ أَلَامٌ: گڑبڑ ہونا۔ إِزئًا: الرئيفة: دوی
پینا۔

الزئو: الرئاة: یوقونی کم کھٹی۔ کمزور دی۔
الرئيفة: زئًا: اللئین کا اسم۔ دوی۔ یوقونی۔ بیٹھا
ملا ہوا اثرش دودھ۔

زئجل (م) زئجلًا: کمزور دی۔ کم سمجھ۔
زئد (ن) زئدًا: وَإِزئدًا: المتعاق: سلمان کو

<p>کرتا۔ اِزْتَجَعَ النَّاقَةَ: ایک اونٹنی کی قیمت سے اس بھی دو سری خریدنا۔ اِزْتَجَعَ إِلَى الشَّيْءِ: واپس کرنا۔ اِزْتَجَعَهُ: واپس کرنا۔ الْمَرْؤَةُ جَلِيئَاتُهَا: چہرہ پر دوبارہ ڈال لینا۔ اِزْتَجَعَ عَلَيَّ الْعَرِيمُ: مطالبہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "بِئْسَ خَيْلَهُ فَازْتَجَعَ مِنْهَا رَجْعَةً ضَالِحَةً" اس نے اپنے گھوڑے کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کو نفع بخش کام میں خرچ کیا۔ تَوَاجَعَ الْقَوْمُ: اپنے اپنے مقالات پر واپس آنا۔ الْقَوْمُ الْكَلَامَ بَيْنَهُمْ: قوم کا آپس میں گفتگو میں اٹھ پھیر کرنا۔ اِسْتَزَجَعَ مِنْهُ الشَّيْءُ: واپس لینا۔ فِي الْمُصِيبَةِ: ﴿إِنَّا لَنَلِدُوا لَكُمْ الْيَتِيمَ اجْعُفُونَ﴾ کہنا۔ الْحَمَامُ فِي خَيْبَانِهَا: کبوتری کا گٹھ کرنا۔ الرَّجْعُ: نہ۔ خط کا جواب۔ بارش کے بعد بارش۔ نفع۔ موسم بہار کی سبزی۔ تالاب۔ ج۔ رَجَاعُ وَرَجْعَانُ وَرَجْعَانُ: الرجوع: لید۔ مِنْ الْأَرْضِ: زمین کا وہ حصہ جس میں سیلاب دُور تک پھیلا ہو۔ مِنْ الْكَيْفِ: مونڈھے کا ٹھکانا حصہ۔ کہا جاتا ہے "كُتُوهُ عِنْدَ رَجْعِ كَفْهِهِ" اس کی مونڈھے کے نیچے حصہ پر اس نے داغ لگایا۔ رَجْعُ الصُّدَى: آواز باز گشت۔ الرَّجْعِ: مِنَ الْكَلَامِ: واپس کی ہوئی گفتگو۔ لید۔ گور۔ تالاب۔ موسم بہار کی سبزی۔ اونٹ کی جگلی۔ ہر واپس کی ہوئی چیز۔ پرانا کپڑا۔ بیس۔ ٹھنڈا کھانا جو دوبارہ گرم کیا جائے۔ بَعِيرُ رَجْعٍ: سفر سے تھکا ہوا اونٹ۔ ج۔ رَجَاعُ: ذابۃ رَجْعٍ اَسْفَارٍ: بار باز سفر میں لوٹ لوٹ جانے والا چوپایہ۔ الرَّاجِعُ: فام عورت جس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہو اور وہ اپنے کنبہ میں چلی گئی ہو۔ ج۔ رَوَاجِعُ۔ الرَّجْعَةُ: رجوع کا اسم نوع۔ حجت۔ اونٹ چھوٹے چھوٹے معمولی جن کی قیمت سے دوسرے اونٹ خرید کر نفع اٹھائیں۔ الرَّجْعَةُ: واپس۔</p>	<p>وَأَرْجَسَ يَابَانِي كَالْمَرْوَةِ كَرْنَا۔ رَجَسَ (س) وَرَجَسَ (ك) رَجَسًا: بڑا کام کرنا۔ صفت (رَجَسَ) اِزْتَجَسَتِ السَّمَاءُ: گز گزانا۔ الْبِنَاءُ: عمارت کے بننے سے آواز شائی دینا۔ الرَّجَسُ وَالرَّجَسُ وَالرَّجَسُ: گندی پلیدی۔ الرَّجَسُ: بڑا عمل۔ بڑے عمل کی سزا۔ شیطان کا دوسرا۔ خفیف حرکت۔ الرَّجَسُ: سمندر۔ کہا جاتا ہے "بَعِيرٌ أَوْ سَحَابٌ رَجَسٌ" بہت تیز آواز والا بادل یا اونٹ۔ بَعِيرٌ رَجُوشٌ مَرَجَسٌ: تیز آواز نکالنے والا اونٹ۔ الْمِرْجَسُ: پانی کی گمرانی ناپنے کا آلہ۔ الْمَرْجُوسَةُ: فساد و گز بڑا ہٹ۔ رَجَعَ (ض) رَجُوعًا وَمَرْجَعًا وَمَرْجَعَةً: وَرَجْعِي وَمَرْجَعَانَا: واپس آنا۔ لوٹنا۔ () رَجْعًا وَمَرْجَعًا وَمَرْجَعًا الْكَلَامَ فِيهِ: فائدہ دینا۔ کہا جاتا ہے "مَا هُوَ إِلَّا سَجْعٌ لَيْسَ فِيهِ رَجْعٌ" یہ صرف سجع ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ الْعِلْفُ فِي الدَّابَّةِ: چارہ کا جانور میں اثر کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَجَعَ عَوْدُهُ عَلَيَّ بِذَنبِهِ" وہ جس راستہ سے آیا تھا اسی سے واپس گیا۔ الشَّيْءُ عِنْدَهُ أَوْ إِلَيْهِ: پھیرنا۔ واپس کرنا۔ رُكْرُنَا رَجُوعًا وَرَجَاعًا: الطَّيْرُ: گرم جگہ سے سرد جگہ میں جانا۔ رَجَعَ فِي صَوْتِهِ: حلق میں آواز کو گھمانا۔ () تَوَجَّعَ فِي الْمُصِيبَةِ: ﴿إِنَّا لَنَلِدُوا لَكُمْ الْيَتِيمَ اجْعُفُونَ﴾ کہنا رَجَعَتِ الدَّابَّةُ: قدم رکھنا۔ تَوَجَّعَ النَّاقَةَ: ایک اونٹنی کی قیمت سے اسی بھی دوسری خریدنا۔ رَجَعَهُ فِي الْأَمْرِ: دوسرے سے معاملہ میں بات چیت کرنا۔ ه الْكَلَامَ: دوبارہ گفتگو کرنا۔ الرَّجُلُ: اپنی پہلی بھلی یا بڑی عادت کی طرف لوٹ جانا۔ رَجَعَهُ: رُكْرُنَا: پھیرنا۔ الدَّابَّةُ: چوپایہ کا گور کرنا۔ النَّاقَةُ: اونٹنی کا لاغر ہونا۔ لاغری کے بعد موٹا ہونا۔ الرَّجُلُ فِي الْمُصِيبَةِ: ﴿إِنَّا لَنَلِدُوا لَكُمْ الْيَتِيمَ اجْعُفُونَ﴾ کہنا۔ اللُّهُ تَبَّعْتَهُ: نفع</p>	<p>حکومت دینا۔ الْمَاءُ: کھود کر پانی نکالنا۔ تَوَجَّعَ: ہلنا۔ بے قرار ہونا۔ کا پنا۔ الشَّيْءُ فِي مَخْلَبِهِ: آنا جانا۔ الرَّجُوحُ: بننے والا۔ کا پٹنے والا۔ الرَّجُوحُ: ہر مضطرب ہونے والی چیز۔ لعاب۔ الرَّجُوحُ: ایک قسم کی گھاس۔ الرَّجُوحُ: ایک دوا۔ رَذْفُ رَجُوحٍ: چلنے میں بننے والا سرین۔ نَاسُ رَجُوحٍ: کمزور عقل والے۔ الرَّجُوحَةُ: حوض کا قبیلہ مٹی سے بنا ہوا پانی۔ لڑائی میں بہت بڑی جماعت۔ تھوک۔ بے عقل۔ رَجُوحٌ (ن) رَجُوحًا: رجز پڑھنا۔ صفت (رَجُوحًا) وَرَجَاؤُ وَرَجَاؤُهُ رَجُوعًا: کسی کے سامنے رجز پڑھنا۔ رَجُوعًا: کسی کے سامنے رجز پڑھنا۔ رَجُوعًا: صحابہ رجز پڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ تَوَجَّعَ: رجز پڑھنا۔ الرَّعْدُ: لگاتار گز گزانا۔ السَّحَابُ: بادل کا پانی کی کثرت کی وجہ سے آہستہ حرکت کرنا۔ اِزْتَجَعَ: رجز پڑھنا۔ الرَّعْدُ: لگاتار گز گزانا۔ بَقْلَانِ: کسی کے متعلق رجز کے اشعار کہنا۔ الرَّجُوحُ فِي الْقِتَالِ: لڑائی میں رجز کے اشعار پڑھنا۔ تَوَاجَعَ الْقَوْمُ: رجز پڑھنے میں باہم مقابلہ کرنا۔ الرَّجُوحُ وَالرَّجُوحُ: گندگی۔ عذاب۔ بتوں کی پرستش۔ بت۔ الرَّجُوحُ: گناہ۔ الرَّجُوحُ: اوزان شہر میں سے ایک وزن کا نام۔ اوزانوں کے سرین کی ایک بیماری کا نام۔ الرَّجَاؤَةُ: عورتوں کے لئے اونٹ پر کی ہوج سے چھوٹی ایک سواری۔ برتن یا کبل جس میں پتھر ڈال کر بوجھ برابر کرنے کے لئے ایک طرف لٹکادیا جاتا ہے۔ الْأَرْجُوحَةُ: حرر رجز کا قصیدہ۔ ج۔ آر جحیز۔ الْأَرْجُوحُ: رجز کی بیماری والا۔ رَجَسَ (ن) (ض) رَجَسًا: البَعِيرُ: اونٹ کا آواز کرنا۔ السَّمَاءُ: آسمان کا گز گزانا۔ فَلَانًا عَنِ الْأَمْرِ: روکنا ()</p>
--	--	--

دو نباتات کے نام رجل الجبار ورجل الخوزاء ورجل قنظورس ستاروں کے نام۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ يَقْدِمُ رَجُلًا وَيُؤَخِّرُ أُخْرَى“ یعنی وہ اپنے معاملہ میں متروک ہے کبھی ایک قدم اٹھاتا ہے کبھی دوسرا۔

الرجل۔ مرد۔ پیدل چلنے والا۔ رج رجال و رجلة ورجلة وازاجل ورجالات۔ کہا جاتا ہے ”فَلَرَأَى رَجُلًا فِي الرِّجَالِ“ فلاں کامل مرد ہے۔

الرجل۔ مہ۔ من الشعر۔ کم گھنگریالے بال۔ رج ازجال ورجالی۔ الرجل۔ پیدل چلنے والا۔ الرجل من الشعر۔ کم گھنگریالے بال۔

الرجل۔ فہ۔ پیدل چلنے والا۔ رج رجل ورجالة ورجال ورجال ورجالی ورجالی ورجال۔ رجال۔ کہا جاتا ہے ”جاءت الخيالة والرجالة“ سواریادے سب آئے۔ و”اغار عليهم بخيليه ورجله“ اس نے ان پر اپنے سوار و پیادوں سے لوٹ ڈالی۔ رجل ازاجل۔ پیدل چلنے والا مرد۔

الرجلة۔ خرفہ کاساگ۔ خرفہ کاساگ اگنے کی جگہ۔ رج رجل۔ الرجل۔ چلنے کی قوت۔ مرد اگلی۔ الرجل۔ جانور کی ایک ٹانگ کی سفیدی۔

الرجلة۔ عورت۔ الرجل۔ رج۔ ازرجلة وازاجل وازاجل۔ پیدل چلنے والا۔ رج۔ رجلی ورجالی ورجالی۔ بہت چلنے پر قادر۔ كلام رجيل۔ فی البدیہہ کلام۔ رجیل رجیل۔ قوی مضبوط مرد۔

مکان رجیل۔ جگہ جس کے دونوں کنارے دور دور ہوں۔ فرش رجیل۔ سدھا ہوا سواری شدہ گھوڑا جس کو پیسند نہ آئے۔

الازاجیل۔ شکاری لوگ۔ الرجولة والرجولة والرجولة۔ الرجولة۔ مردی۔ مرد اگلی۔ الرجولان۔ پیدل چلنے والا۔ رج رجالی ورجالی ورجالی۔ مؤنث رجلی۔ رج رجالی ورجالی۔

الرجف۔ اضطراب۔ بے قراری۔ رجل (ن) ازرجل۔ الفصیل۔ اونٹ کے بچے کو ماں کا دودھ پینے کیلئے آزاد چھوڑ دینا۔ الشاة۔ بکری کی ٹانگیں باندھ دینا۔ رجله۔ ٹانگ پر مارنا۔

رجل (س) ازرجل۔ پیدل چلنا۔ بیکر ٹانگ والا ہونا۔ الذائبة۔ ایک ٹانگ میں سفیدی والا ہونا۔ الشعر۔ بال۔ کچھ گھنگریالے ہونا۔ الفصیل۔ اونٹ کے بچے کا ماں کا دودھ پینے کیلئے آزاد چھوڑنا۔ رجله۔ قوی کرنا۔ الشعر۔ گھنگھی کرنا۔ ازرجله۔ مملت دینا۔ پیدل چلانا۔ الفصیل۔ اونٹ کے بچے کو ماں کا دودھ پینے کے لئے آزاد چھوڑنا۔

تو رجل۔ سواری سے اتر کر پیدل چلنا۔ المرأة۔ مرد جیسی ہونا۔ الشمس۔ آفتاب کا بلند ہونا۔ البسرو فی البسر۔ بغیر کچھ لٹکائے ہوئے کونکس میں اترنا۔ الزند۔ پاؤں کے نیچے رکھنا۔

ازرجل۔ دیکھی میں پکانا۔ الشاة۔ ٹانگیں باندھنا۔ ہ: پاؤں سے پکڑنا۔ الزند۔ پاؤں کے نیچے رکھنا۔ الكلام۔ فی البدیہہ کرنا۔ یزایہ۔ مغز ہونا۔ الرجل۔ پیدل چلنا۔

التهاؤ۔ دن کا چڑھنا۔ الفروس۔ درمیان دو رفتاروں کے آرام لینا۔ کہا جاتا ہے ”ازتجل رجلک“ اپنی شان کو لازم پکڑ۔ الرجل۔ مہ۔ پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شعور رجل۔ کچھ گھنگریالے بال۔

الرجل۔ رج۔ ازرجل۔ پاؤں۔ رج۔ ازرجل۔ کسی چیز کا حصہ۔ مذی دل (یہ بغیر واحد کے جمع ہے) کہا جاتا ہے ”جاءت رجلی دافع“ یعنی بہت بڑا لنگر آیا (جو مذی دل کے مشابہ ہے) عمد۔ زمانہ۔ کہا جاتا ہے

”کان ذالک فی رجل فلان“ یعنی فلاں کے عمد میں ایسا تھا۔ الرجل۔ باجامہ۔ سفید کورا کاغذ۔ فقیری۔ آدمی کا پاخانہ۔ بہت سونے والا مرد۔ خوف۔ تم کہتے

ہو ”انا من افری علی رجل“ مجھے اپنے امر کے قوت ہونے کا خوف ہے۔ پیش قدمی۔ رجل البخور۔ کھاڑی ٹھیل۔ رجلا السهم۔ تیر کے دونوں کنارے۔ رجل الغراب ورجل الجراد۔

والرجعة والرجعی والرجعان والرجوة۔ خط کا جواب۔ المزیج۔ لوٹنے کی جگہ موڑنے کا پتلا حصہ۔

المزجوع والمزجوة۔ خط کا جواب۔ گودنے کے نشانات جو دوبارہ تازہ کئے گئے ہوں۔ کہا جاتا ہے ”لینس هذا البیع مزجوع“ اس بیع کی واپسی نہیں۔

المزاجع۔ من النساء۔ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ اپنے کتبہ میں واپس آگئی ہو۔

الرجاع۔ مہار کا وہ حصہ جو اونٹ کی ٹانگ پر ہو۔ رج ازرجعة ورجع۔ رجعة (ن) ازرجفا ورجفاناً ورجفاناً۔ تیز ہلانا۔ ہلنا (لازی و متعدی) الرجل۔ بہت کا پھینا۔ کسی خوف کے لائق ہونے سے فرار نہ پکڑنا۔

الأرض۔ زمین میں بھونچال ہونا۔ القوم۔ لڑائی کے لئے تیار ہونا۔ الزعد۔ گزر گزانا۔ الأمتان۔ دو انتوں کا گزانا۔

ازرجف۔ لوگوں کو بھڑکانے کے لئے بڑی خبروں کو پھیلاتا۔ القوم۔ بالمشئوفیہ۔ گھستا۔ الریح الشجر۔ ہوا کا درخت کو ہلانا۔

ازرجفت الأرض۔ زمین میں بھونچال ہونا۔ زلزلہ ہونا۔ تجف وازتجف۔ بہت زیادہ کانپنا۔

استرجف۔ راستہ۔ حرکت دینا۔ اور کہا جاتا ہے ”خو رجوا استرجفون الأرض نخذة“ وہ لوگ نکلے اس حال میں کہ انہوں نے زمین میں شجاعت و دلیری کی وجہ سے زلزلہ ڈال دیا۔

الرجفة۔ اسم مرفوع۔ زلزلہ۔ بھونچال۔ الرجاف۔ فہ۔ جوڑی والا ہتھیار۔ الرجافة۔ قیامت کے روز صور کا پہلا نغمہ۔ الرجاف۔ بہت کانپنے والا۔ سمندر۔ قیامت کا دن۔

الازاجیف۔ گھڑی ہوئی جموٹی خبریں۔ کہتے ہیں ”إذا وقعت المخابر فکثرت الازاجیف“ جب خوف بڑھ جایا کرتا ہے تو جموٹی خبریں بہت اُترتی ہیں۔

منقطع کچھ امید لگانا۔

رَجَبِي (س) اَرْجَا۔ کلام سے رک جانا۔

رَجَبِي عَلَيهِ۔ کلام منقطع ہونا۔

رَجَبِي وَتَرَجَبِي وَارْتَجَبِي۔ الشَّقِي: امید کرنا۔

رَجَبِي وَارْتَجَبِي فَلَانَا: امید لگانا۔ وَارْتَجَبِي

الشَّقِي: خوف کرنا۔

أَرْجِي الْأَمْرَ: مَوْخَرُ کرنا۔ الصَّيْدَ: نہ

پانا۔ أَرْجِي الْبَيْتَ: کنوئیں کا من پانا اَرْجَبَتِ

النَّاقَةُ: بھنے کے ترقب پہننا۔

الرَّجَاوُ الرَّجَاءُ: کنارا۔ رَجَاوُ الْبَيْتِ: کنوئیں

کے دونوں پہلو۔ الرَّجَاءُ: چھوٹا حمل کہ دیکھنے

میں تو حمل معلوم ہو مگر واقعی نہ ہو۔

الرَّجِيَّةُ: امید کی چیز۔ کہا جاتا ہے "الْيَسْرُ لِي

فِي فَلَانٍ رَجِيَّةٌ" فلاں سے مجھے کوئی امید نہیں۔

الرَّجِيَّةُ: جو چیز مَوْخَرُ ملتوی کی جائے۔

الرَّوْحَةُ: سانپ جو کندھی مارے ہوئے ہو۔

الرَّوْحُ: کھر کی چوڑائی۔

الرَّوْحُ: چوڑے پيالے۔

الرَّوْحُ: بھرے تلوے والا۔ مَوْنُثُ رَحَاءُ ج

رَحُ

رَحَبٌ (س) رَحَبًا وَرَحَبٌ (ک) رَحْبًا

وَرَحَابَةٌ: المَكَانُ: جگہ کشادہ ہونا۔ صفت

(رَحْبٌ وَرَحِيْبٌ وَرَحَابٌ) اور کہا جاتا ہے

"رَحْبُكُمْ الْأَمْرُ" یعنی معاملہ ہمارے لئے

وسیع ہے (اور یہ سزا ہے)۔

رَحَبٌ: المَكَانُ: کشادہ کرنا () بہ

مُرَحَبَةٌ بہتر طریقہ سے استقبال کرنا۔ خوش آمدید

کہنا۔ مرحبا کہنا۔

أَرْحَبُ: المَكَانُ: کشادہ ہونا۔

المَكَانُ: کشادہ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "أَرْحَبْنَا

وَلَدًا" یعنی اسے لڑکے ہٹ جا۔

تَوَارَحَبٌ: کشادہ ہونا۔

الرَّحْبُ: کشادہ۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ رَحْبٌ

وَأَرْضٌ رَحْبَةٌ" کشادہ جگہ و کشادہ زمین۔

"وَرَحْبُ الصَّدْرِ" کشادہ دل۔ و "رَحْبٌ

الْفَهْمُ" زیادہ عقل والا۔ و "رَحْبُ النَّبَاحِ" او

الذِّبْزَاعُ" فیاض۔ مخی۔

الرَّحْبِيُّ: سب سے چوڑی پہلی۔ الرَّحْبِيَانِ:

الرَّجِيَّةُ الرَّجِيَّةُ: قبر قبر کا پھر جو بطور نشان لگایا

جائے۔ بَجْرًا کھمت۔ ج رَجْمٌ وَرَجَامٌ۔

الرَّجْمُ: سنگسار کیا ہوا۔ لمعون۔

الرَّجَامُ: کنوئیں کی من۔ پتھریا پتھر کی مانند کوئی

چیز جس میں رشتی باندھ کر کنوئیں کی گمراہی معلوم

کی جائے۔ ثَلْبٌ: واحد (رَجْمَةٌ)

الرَّجَاهَانِ: کنوئیں کی من پر کی دو گھڑیاں جن

میں چرخ لگائی جاتی ہے۔

الرَّجْمُ: من الرجال: مضبوط قوی مرد۔

فَرَسٌ مَرْجَمٌ: بہت روندنے والا گھوڑا۔

حَدِيثٌ (مَرْجَمٌ) ظنی بات۔ بات جس کی حقیقت

معلوم نہ ہو۔

الرَّجْمُ: پتھروں کے پھینکنے کا آلہ۔ من الاہل:

مضبوط اونٹ۔

الرَّجْمُ: قبیح کلمات۔ کہا جاتا ہے "تَرَامُوا

بِالرَّجْمِ" انہوں نے ایک دوسرے سے قبیح

کلمات کہے۔

رَجْنٌ (ن) اَوْ رَجْنٌ (س) اَوْ رَجْنٌ (ک) اَوْ رَجْنًا:

بِالمَكَانِ: اقامت کرنا۔ الرَّجْوَانُ: بانوس

ہونا۔

رَجْنٌ (ن) رَجْنًا وَرَجْنٌ اَوْ رَجْنٌ الدَّائِبَةُ:

چارہ کھانے کیلئے گھر پر روکنا۔ رَجْنٌ فَلَانًا: شرم

کرنا۔ اَوْ رَجْنَتِ النَّاقَةُ: گھر پر ٹھہرنا۔

اِرْتَجَنَ: بِالمَكَانِ: اقامت کرنا۔

الرَّيْدُ: پکالے سے صاف نہ ہونا اور خراب ہو جانا

عَلَى الْقَوْمِ اَمْرُهُمْ: گزیرو فاسد ہونا۔

الرَّجِيْنُ: مسلک زہر۔

الرَّجِيَّةُ: جماعت۔

الرَّجْوَانَةُ: ٹوکرا۔ خٹک کدو اندر سے خالی جس

میں عورتیں روٹی رکھتی ہیں۔ کہا جاتا ہے "هَمْ فِي

مَرْجْوَانَةٍ" وہ لوگ اقامت کرنے یا کوچ کرنے میں

متروک ہیں۔

رَجَةٌ (ض) رَجْبًا: بلنا۔ بالشَّقِي: دائیوں

سے پھڑنا۔

أَرْجَةُ الْأَمْرِ: وقت سے پیچھے ہٹانا۔

رَجَا (ن) رَجَاءٌ وَرَجْوًا وَرَجَاءٌ: مَرْجَاةٌ

وَرَجَاوَةٌ وَرَجَاءَةٌ: پُر امید ہونا۔ الشَّقِي:

امید کرنا۔ خوف کرنا۔ الرُّجْلُ: کسی کے

الرُّجْلُ: مِنَ الدَّوَابِّ: ایک ٹانگ میں سفید

دراغ والا جانور۔ رَجُلٌ أَرْجُلٌ: بڑے پاؤں والا

مرد۔ مَوْنُثٌ رَجْلًا ج رَجُلٌ اور کہا جاتا ہے

"هُوَ أَرْجَلُهُمْ" وہ ان لوگوں میں کامل مردانگی

والا ہے۔

الرَّجْرَجِلُ: نہ جانور کے ایک ٹانگ کی سفیدی۔

الرَّجْرَجِلُ: کرفس (ایک دو اکانام)

الرَّجْرَجِلُ: ویک۔ کٹھنی۔ ج مَرْجَلٌ۔

الرَّجْرَجِلُ: مِنَ التَّيْسِ ج وَنَحْوَهُ: کپڑا جس پر

آدمی کی تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ شراب سے

بھری ہوئی مٹک۔

الرَّجْرَجِلُ: مِنَ الشَّيْبِ: کپڑا جس پر ویک

کی صورت بنی ہوئی ہو۔

إِمْرَأَةٌ مَرْجَلٌ: لڑکے ہی جھنڈے والی عورت۔

رَجْمَةٌ (ن) رَجْمًا: سنگسار کرنا۔ پتھراؤ کرنا۔

لَعْنَتٌ کرنا۔ گالی دینا۔ چھوڑنا۔ وھلکانا۔

الرَّجْمُ: نشان کے لئے پتھر لگانا۔

الرَّجْلُ: اَنكَل سے بات کرنا۔ کہا جاتا ہے

"جَاءَتِ رَجْمٌ" وہ تیر بھاگتا ہوا آیا۔

رَجْمٌ: اَنكَل سے بات کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَجْمٌ

بِالرَّغِيْبِ" اس نے اَنكَل بچہ باتیں کیں۔ الرَّجْمُ:

نشان کے لئے پتھر لگانا۔

وَأَجْمَةٌ مَرْجَمَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ

کرنا۔ عَن قَوْمِهِ: بداعت کرنا۔ ہ فی

الرَّحْبُ: او الرَّحْبُ او الرَّحْبُ: لڑائی یا گفتگو یا

دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

تَوَارَجَمُوا: ایک دوسرے کو پتھرا کرنا۔

بِالرَّحْبِ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔

إِرْتَجَمَ: الشَّقِي: نہ بہتہ ہونا۔

الرَّجْمُ: مدد دست۔ ہم نشین۔ وہ چیز جس سے

پتھراؤ کریں۔ ج رَجْمٌ: الرَّجْمُ: اَنكَل کی گفتگو۔

کہا جاتا ہے "رَجْمًا بِالرَّغِيْبِ" اَنكَل بچہ و حصار

فَلَانٌ رَجْمًا: فلاں حقیقت حال سے واقف

نہیں۔

الرَّجْمُ: کنواں۔ تَوْرُ: قبر۔ ج رَجْمٌ۔

الرَّجْمُ: ستارے کی مانند جو آسمان سے گرتے

ہوئے معلوم ہوں۔ کوئی علامت یا پتھر جو قبر پر لگایا

جائے۔ واحد (رَجْمٌ)

بغل سے متصل دونوں طرف کی پہلیاں۔

الزَّحْبَةُ وَالزَّحْبِيَّةُ: كشاهه زمین جس میں

بکھرت گھاس ہو اور بہت لوگ آتے ہوں۔

مکانوں کے درمیان کھلی ہوئی جگہ۔ مِنْ

الذَّارِ: مکان کا معنی۔ مِنَ الزَّادِي: وادی

کے دونوں جانب پانی بننے کی جگہ۔ جِ رِحَابٍ وَ

زَحَبٍ وَزَحَابٍ وَزَحَبٍ وَزَحَابٍ۔

الزَّحْبِيَّةُ: بہت کھانے والا۔

الزَّحَابُ: خوش آمدید۔

زَحَابِيَّةٌ: النَّجْمُومُ: كشاهه اطراف۔ واحد

زَحْبِيَّةٌ۔

الْمَزْحَبُ: كشادگی۔ اور مسافر سے خوش

آمدید کہنے کے موقع پر کہا جاتا ہے "مَزْحَبِيَّكَ"

یعنی تم نے كشادگی پائی۔ و "مَزْحَبَتِكَ اللَّهُ وَ

مَسْهَلُكَ" اللہ تم کو كشاهه اور نرم زمین میں

آتارے۔ "أَهْلًا وَمَزْحَبِيَّةً" یعنی اپنے لوگوں میں

نازل ہوئے اور كشادگی پائی اس لئے مانوس ہو

جاؤ۔ وحشت مُت کر دو۔ اور بددعا کے موقع پر کہا

جاتا ہے "لَا مَزْحَبِيَّكَ"

زَحْرُوحٌ: مراد کی گمراہی کو نہ پہنچنا۔

السُّبْقُ عَنِ فُلَانٍ: چھپانا۔ بالكلام:

واضح کلام نہ کرنا۔

تَزْحْرُوحُ: الفَرْسُ: گھوڑے کا پیشاب کے

لئے ٹالکلیں پھیلانا۔

الزَّحْرُوحُ وَالزَّحْرُوحَانُ: پھیلا

ہوا كشاهه۔ اتھلا۔ تھوڑی گمراہی والا۔ اور کہا جاتا

ہے "عَيْشٌ زَحْرُوحٌ وَزَحْرُوحٌ" یعنی آسودہ و

فراخ زندگی۔

زَحَضٌ (ف) زَحَضًا وَزَحَضٌ: القَوْبُ:

کپڑا ہونا۔

زَحَضٌ: الْمُخْمُومُ: ہمیشہ آتا۔

إِزْحَضٌ: الزَّجْلُ: رومال ہونا۔

قَوْبٌ (زَحَضٌ) کپڑا جو دھویا جائے یہاں تک کہ

پڑانا ہو جائے۔ الزَّحَضُ: مُكَلٌّ: پرانہ توشہ

دان۔

الْمُحَضَّاءُ: بخارا اترتے وقت کا ہمیشہ۔ ہمیشہ جو

کھال کو شربور کر دے۔

الْمُزْحَضُ: دھویا ہوا۔

الْمِزْحَضُ: غَسْلُ غَانَةٍ: ہاتھ پاؤں دھونے کی

جگہ۔ دھوبی کا تختہ جس پر کپڑے چلک کر دھوتا ہے

(عوام اس کو مِخْبَاطُ کہتے ہیں) پانخانہ۔ جِ

مَزْحَضِيَّةٌ۔

الْمِزْحَضَةُ وَالْمِزْحَضَةُ: کوئی چیز جس میں

وضو کیا جائے۔

أَزْحَفُ إِزْحَافًا: اللَّسْبِكِيَّةُ: چھری تیز کرنا۔

الزَّحَاقُ وَالرَّحِيقُ: شَرَابٌ: الرَّحِيقُ: ایک

تسم کی خوشبو۔ حَسْبُ زَحِيقٍ: بے داغ حسب

وَسَلْتُ زَحِيقًا: خالص مکہ۔

زَحَلٌ (ف) زَحَلًا وَزَحِيلًا وَتَزَحَالًا: عَنِ

الْمَكَانِ: تَرَكَ وَطْنَ كَرْنَا۔ إِلَى الْمَكَانِ:

متنقل ہونا۔ التَّبَعِيَّةُ: کجاوہ کسنا۔ سوار ہونا۔ کسنا

جاتا ہے "زَحَلْتُ لَهُ نَفْسِي" میں نے اس کی

تکالیف پر صبر کیا۔ هُ بِالسَّيْفِ: کسی پر تلوار

اٹھانا۔ الْبِلَادُ: پھرنا۔ گھورنا۔

زَحَلَةٌ: کوچ کرنا۔ کوچ کرنے میں کوشش کرانا

الْقَوْبُ: نقش و نگار کرنا۔

زَحَلَةٌ: کوچ کرنے میں مدد دینا۔

إِزْحَلٌ: سواری کے بہت جانور والا ہونا۔

الذَّابَةُ: چپائے کا کمزوری والا غری کے بعد موٹا

مضبوط ہونا۔ هُ: سواری دینا۔

الْإِبِلُ أَوِ النَّاقَةُ: اونٹ یا اونٹنی کو سواری

کے لئے سدھانا۔

تَزَحَلٌ: القَوْمُ عَنِ الْمَكَانِ: متنقل ہونا۔

فَلَانًا: کسی کے ساتھ ناپسندیدگی سے پیش آنا۔

إِزْحَلٌ: عَنِ الْمَكَانِ: متنقل ہونا۔ کوچ کرنا

التَّبَعِيَّةُ: اونٹ پر کجاوہ کسنا۔ سوار ہونا۔

الْأَهْرُ: کسی معاملہ پر غالب ہونا۔

إِسْتَزْحَلٌ: سواری طلب کرنا۔ سواری پر کجاوہ

کسنے کے لئے کسنا۔ النَّاسُ نَفْسَهُ: اپنے

آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا۔

وَأَلْفَى زَحَلَهُ" اس نے اپنا کجاوہ اتارا اور سامان

ڈال دیا۔ یعنی اس نے اتامت کر لی۔ جِ رِحَابٌ

وَأَزْحَلُ" الرِّحَالُ: مقام حیرہ کے بنے ہوئے

نالیچے۔

الرَّحَلَةُ: کوچ۔ تم کہتے ہو "غَدَا زَحَلْنَا" کل

ہمارا کوچ ہے۔ سفر نامہ۔

الرَّحَلَةُ: جت سفر۔ تم کہتے ہو "وَمَشَقُ

زَحَلْنَا" ہماری جت و سفر دشمن ہے۔ سفر۔

عَالِمُ زَحَلَةٌ: ایسا عالم جس کے پاس لوگ کوچ کر

کے آئیں۔ بَعِيْرٌ ذُو زَحَلَةٍ وَرِحَلَةٍ: مضبوط و

قوی اونٹ۔

الزَّجْلُ: مہ کوچ۔ اونٹ جس پر کجاوہ کسا

جائے۔ جَمَلٌ زَجْلٌ وَنَاقَةٌ زَجِيْلَةٌ: چلنے میں

قوی اونٹ۔

الزَّاجِلُ: نَاجِزٌ زَاجِلُونَ وَزَحَلٌ وَزَحَالٌ۔

الزَّاجِلَةُ: مِنَ الْإِبِلِ: سواری کے لائق

اونٹ۔ سفر و بار برداری کے لئے مضبوط اونٹ و

اونٹنی (تاما ساند کے لئے ہے) جِ زَوَاجِلٌ۔

الرِّحَالَةُ: بغير لکڑی کے صرف پھڑے کا زین۔

جِ زَحَالٌ۔

الْأَزْحَلُ: مِنَ الْغَيْلِ وَالشَّاءِ: سفید پیٹھ والا

گھوڑا یا بکری۔

الزَّحَالُ: کجاوہ بنانے والا۔ بہت سفر کرنے

والا۔ جِ زَحَالَةٌ۔

الزَّحَالَةُ: بہت سفر کرنے والا۔

الزَّحْوَلُ: بہت متنقل ہونے والا۔

الزَّحْوَلُ: کجاوہ۔

الْمَزْحَلَةُ: مسافر کے ایک دن کا سفر۔ جِ

مَزْرَجِلٌ۔

الْمَزْرَجِلُ: بہت سواری کے جانور والا۔)

وَالْمِزْحَلُ مِنَ الْعَجْمَالِ: مضبوط و

قوی۔

الْمُرْحَلُ: مِنَ الْإِبِلِ: کجاوہ کسا ہوا اونٹ۔

مِنْ الشَّيْبِ: کجاوہ کے مانند نقش و نگار

والا کپڑا۔

مَزْرَحَلٌ: التَّبَعِيَّةُ: اونٹ کے کوچ کرنے کی

جگہ۔

زَحْمَةٌ: (س) زَحْمَةٌ وَزَحْمَةٌ وَزَحْمًا

وَالزَّحْمَةُ: ہاتھ پاؤں دھونے کی

جگہ۔ دھوبی کا تختہ جس پر کپڑے چلک کر دھوتا ہے

(عوام اس کو مِخْبَاطُ کہتے ہیں) پانخانہ۔ جِ

مَزْحَضِيَّةٌ۔

الْمِزْحَضَةُ وَالْمِزْحَضَةُ: کوئی چیز جس میں

وضو کیا جائے۔

أَزْحَفُ إِزْحَافًا: اللَّسْبِكِيَّةُ: چھری تیز کرنا۔

الزَّحَاقُ وَالرَّحِيقُ: شَرَابٌ: الرَّحِيقُ: ایک

تسم کی خوشبو۔ حَسْبُ زَحِيقٍ: بے داغ حسب

وَسَلْتُ زَحِيقًا: خالص مکہ۔

زَحَلٌ (ف) زَحَلًا وَزَحِيلًا وَتَزَحَالًا: عَنِ

الْمَكَانِ: تَرَكَ وَطْنَ كَرْنَا۔ إِلَى الْمَكَانِ:

متنقل ہونا۔ التَّبَعِيَّةُ: کجاوہ کسنا۔ سوار ہونا۔ کسنا

جاتا ہے "زَحَلْتُ لَهُ نَفْسِي" میں نے اس کی

تکالیف پر صبر کیا۔ هُ بِالسَّيْفِ: کسی پر تلوار

اٹھانا۔ الْبِلَادُ: پھرنا۔ گھورنا۔

زَحَلَةٌ: کوچ کرنا۔ کوچ کرنے میں کوشش کرانا

الْقَوْبُ: نقش و نگار کرنا۔

زَحَلَةٌ: کوچ کرنے میں مدد دینا۔

إِزْحَلٌ: سواری کے بہت جانور والا ہونا۔

الذَّابَةُ: چپائے کا کمزوری والا غری کے بعد موٹا

مضبوط ہونا۔ هُ: سواری دینا۔

الْإِبِلُ أَوِ النَّاقَةُ: اونٹ یا اونٹنی کو سواری

کے لئے سدھانا۔

تَزَحَلٌ: القَوْمُ عَنِ الْمَكَانِ: متنقل ہونا۔

فَلَانًا: کسی کے ساتھ ناپسندیدگی سے پیش آنا۔

إِزْحَلٌ: عَنِ الْمَكَانِ: متنقل ہونا۔ کوچ کرنا

التَّبَعِيَّةُ: اونٹ پر کجاوہ کسنا۔ سوار ہونا۔

الْأَهْرُ: کسی معاملہ پر غالب ہونا۔

إِسْتَزْحَلٌ: سواری طلب کرنا۔ سواری پر کجاوہ

کسنے کے لئے کسنا۔ النَّاسُ نَفْسَهُ: اپنے

آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا۔

التزخوم والتزخيم والتزخوم۔ نرمہ۔
رخی (س) زخا ورغوة ورغوة (ک) زخا ورغوة۔
نرم ہونا۔ آسان ہونا۔ آسودہ زندگی والا ہونا۔
صفت (ر) زخو ورغو ورغو

رَخَا (ن) ورخی (ف) ورخی (س) ورغو
(ک) رَخَاء العَيْش : زندگی کا آسودہ ہونا۔
صفت (ر) رَخِي (رخی)

رَخَاء مَرَاةً۔ دور کرنا۔ جیسے کہتے ہیں
”حَلَّتْ الفِرَارِ يُرَاجِحِي الأَجَلَ“ میرا خیال تھا
کہ گریز موت کو دور کرے گی۔ الشئ :
نرم کرنا۔ العَفْة : گم ہونا۔ کہا جاتا ہے
”رَاحِي حَنَاقَهُ اور بَاقَهُ“ یعنی اس نے اسے
مہلت دی۔ رَاحَتِ المَرَاةُ : پختہ ہونے کے قریب
ہونا۔

أَرَحِي إِرْحَاءً۔ الشئ : نرم کرنا
القَوْمِ ولِلْفَرَسِ : گھوڑے کی رتی ڈھیلی کرنا۔
کہا جاتا ہے ”أَرَح لَه الحَبْلُ“ اس کی رتی
ڈھیلی کر دو۔ یعنی اس کو کام کرنے کا موقع دو
۔ السَّوْر : پرہ لگانا اور کہا جاتا ہے ”أَرَحِي
عِمَامَتَهُ“ یعنی وہ مطمئن و مامون ہوا
ذابتہ : جانور کو آزادانہ چلنے دینا۔ زَمَام
التَّاقَةُ : اونٹنی کی لگام کو ڈھیلنا چھوڑنا۔
رَخِي۔ الشئ بالشئ : ملانا۔

تَرَحِي تَرَحِيًا۔ عتہ : دور ہونا۔ پیچھے ہٹنا۔ دیر
کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَرَحِيَتِ السَّمَاءُ“ یعنی
بارش میں دیر ہوئی۔ تَرَحِي القَوْمِ : گھوڑے
کا دوڑنے میں سست ہونا۔ کہا جاتا ہے ”إِنَّ لِي
الْأَمْرَ تَرَحِيًا“ معاملہ میں وسعت و گنجائش ہے۔

إِرْحِي وَإِسْرَحِي۔ نرم ہونا۔
استر سخت بہ حالہ : تنگی اور سختی کے بعد اس کی
حالت اچھی ہو گئی۔

الرَّحَاءُ۔ نرم فرامی زندگی۔
الرَّحَاءُ۔ نرم ہونا۔

الأَرْحِيَّةُ۔ ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے۔ جِ أَرَحِيَّةُ۔
المِرْحَاءُ۔ تیز دوڑنے والا جانور۔ جِ مَرَاخِ
(ن) مَرَاخِ۔ تیز دوڑنے والی عورت۔ جِ مَرَاخِ
(ن) مَرَاخِ۔ تیز دوڑنے والی عورت۔ جِ مَرَاخِ
”فَرَسٌ مِرْحَاءٌ وَأَنَا مِرْحَاءٌ“
رَدَّةُ (ن) رَدَا و مَرَدًا و مَرَدًا و رَدَّةً۔

عَنْ كَذَا : پھیرنا۔ واپس کرنا۔ لَوْنَانُ رَدًّا فُلَانًا : خطا
کار ٹھہرانا۔ النَّابُ : بھیرنا۔ عَلَيْهِ
الشئ : پھیرنا۔ قبول نہ کرنا۔

إِلَيْهِ جَوَابًا : جواب بھیجنا۔ هِ إِلَى
يَنْبِيهِ : لونا دینا اور کہا جاتا ہے ”مَا يَرُدُّ هَذَا عَلَيْكَ
شَيْئًا“ یہ تم کو کچھ نفع نہیں دے گا

الشئ : ایک حالت سے دوسری حالت پر کر دینا
جیسے ”فَرَدَّ شَعْوَرَهُنَّ الشَّوْبَةَ بَيْضًا“ ان کے
کالے بالوں کو سفید کر دیا۔ رَدَّ القَوْلَ تَرَدَّدًا : بار
بار دہرانا۔

رَدَّدَ۔ القَوْلُ : بمعنی رَدَّ القَوْلِ (تشدید کثرت
کے لئے ہے)

رَادَّةً۔ الشئ : واپس کر دینا۔ هِ فِي
الكَلَامِ : بحث کرنا۔

أَرَدَ۔ البَحْرُ : جوش میں آنا۔ الرُّجْلُ :
غمر سے پھول جانا۔ الشَّاةُ : تھن والی
ہونا۔ صفت (مَرَدٌ)

تَرَدَّدَ۔ رُوهُنَا : فِي الأَمْرِ : شک و شبہ
میں پڑ جانا۔ إِلَيْهِ : بار بار آنا۔ وَتَرَدَّدَ
فِي الجَوَابِ : زبان کا لٹکنا۔

تَرَدَّدَ۔ البَيْعُ : بیع فسخ کرنے پر رضامند ہونا۔
تَرَادَّ المَاءُ : روک کی وجہ سے پیچھے ہٹنا۔
إِرْتَدَّ۔ الشئ : واپس کرنا۔ واپس کرنے کو کہنا

عَلَى أَمْرِهِ او عَنْ طَرَفِهِ : لونا
عَنْ دِينِهِ : دین کو چھوڑنا۔ دین سے پھر جانا۔ عَنْ
هَيْبَةٍ : بہہ کو لونا لینا۔ إِلَى الصَّوَابِ :
صواب کی جانب لوٹ جانا۔

إِسْتَرَدَّ۔ الشئ : واپس کرنے کو کہنا۔ هِ
الشئ : واپسی چاہنا۔ أَلْهَيْتَهُ : بہہ کو لونا لینا۔
الرَّدُّ۔ نہ زبان کی لٹکنا۔ نہ بات کی کثرت۔
کہا جاتا ہے ”صَبَّحَتْ كَيْفِيَّةُ الرَّدِّ“ بہت بات

والی جانیدو۔ شئ رَدَّ رُوِي جِز۔ أَمْرًا رَدًّا : مخالف
سنت کام۔ وَرَهْمًا رَدًّا : کھوٹا نرم۔ کہا جاتا ہے ”لَا
تُعْطِي مِنْ رَدِّ الدَّرَاهِمِ“ مجھے کھوٹے درہم
مت دو۔

الرَّدُّ۔ جِز کا سارا۔
الرَّدِّي۔ طلاق دی ہوئی عورت۔
الرَّدَّةُ۔ رد کا اسم مرتہ۔ کچھ بھال کے ساتھ زشت

روئی۔ کہا جاتا ہے ”لِي وَجْهَهُ رَدَّةً“ اس کے
چہرہ میں کچھ بھال کے ساتھ بد صورتی ہے۔

الرَّدَّةُ۔ إرْتَادًا كَالِاسْمِ : ٹھوڑی کا پکنا۔ پھاڑی
گوج۔ پختہ ہونے سے پہلے تھن کا بھرا ہونا۔ کہا جاتا ہے
”شَرِبْتُ الإِبِلَ رَدَّةً“ اونٹ نے دوسری بار پانی
پیا۔

الرَّدَادُ و الرَّدَادُ۔ واپسی۔
الرَّدِيدُ۔ بادل جو برس چکا ہو۔
التَّرْدَادُ۔ رد۔ تھمار۔
الأَرْدُ۔ نافع تر۔

الرَّادَّةُ و المَرَدَّةُ۔ فائدہ۔ کہا جاتا ہے ”لَا رَادَّةَ
او لَامَرَدَّةَ فِيهِ“ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔

المَرَدَةُ۔ فائدہ تک سفر میں رہنے والا یا زمانہ
دراز تک بغیر بیوی کے رہنے والا۔ غھیناک۔
سوچے ہوئے تھنوں والی اونٹنی۔ اونٹ جس نے
پانی بہت پیا ہو۔ جِ مَرَادًا۔

الجَرْدُ۔ مِنَ الرُّجَالِ : بہت رد کرنے والا۔
بہت حملہ کرنے والا۔

المَرْدُودُ۔ عہدہ زمانہ دراز تک بغیر بیوی کے
رہنے والا یا بہت تک سفر میں رہنے والا۔

المَرْدُودَةُ۔ مردود کا مؤنث۔ اسرا۔
المَرْدُودُ۔ حیران و سرگشت۔

رَدَا (ف) رَدَاً۔ الحَايِطُ : دیوار کو تک لگانا۔

الرُّجْلُ : مد کرنا۔ رَدَاً أَيْ بَحْجُرٍ : پھارنا۔
رَدَّو (ک) رَدَاةً۔ روی ہونا۔ صفت (رَدِّي)
جِ أَرْدِيَاءُ و أَرْدِيَاءُ۔

أَرْدَاً۔ جِز کام کرنا یا بڑی چیز پھانچانا۔ هِ :
خراب کرنا۔ بگاڑنا۔ السَّيْرُ : لٹکانا۔
الحَايِطُ : دیوار کو تھم لگانا۔ فُلَانًا :
تسکین دینا۔ برقرار رکھنا۔ هِ عَلَى مَانِيَةٍ :
زیادہ کرنا۔ بڑھانا۔

تَرَادَّ القَوْمُ : ہا ہم مد کرنا۔
الرَّدَّةُ۔ مدگار۔ مد۔ ایک جانب کا بھاری بوجھ
جو جانور پر لادیں۔ جِ أَرْدَاءُ۔
تَرَدَّدَ۔ نرمی سے پیش آنا۔

الرَّدْبُ۔ راستہ جس کا آخری سرا بند ہو۔
الإِرْدَبُ۔ چوبیس صلح کا ایک بڑا پیمانہ۔ سَلْعُ
زمین پر بننے والی جِز اَرْدَبُ۔

الإزْدَابَةُ: چوپچہ - بڑی اینٹ۔

زُدَج (ن) زُدَجَانًا: جانا۔ گزرتا۔

الزُدَج: نوپید بھنے کی بیٹی۔ نوپید بھڑے کی لید۔

الأزْدَاخ: سیاہ چڑا۔

زُدَخ (ف) زُدَخًا: ثابت قدم رہنا۔ الشَّيْءُ:

زمین پر پھیلا کر رابر کرنا۔ (وَأَزْدَخ) البَيْتُ:

گاڑھا گاڑھا لپٹا۔

زُدَخ الشَّيْءُ: زمین پر پھیلا کر ہموار کرنا۔

الزُدُوح: ہلکا ہلکا۔

الزُدُوح: لمبی مدت کہا جاتا ہے "أَقَامَ زُدُوحًا مِ"

الدَّهْرُ" اس نے زمانہ دراز تک اقامت کی۔

الزُدُوح: بہت بڑا لشکر۔ تاریکی پر بادِ رشت۔ بڑا

پالہ۔ مِّنَ الْكِبَائِشِ: بڑی چگی والا دنبہ۔

ج: زُدُوح۔

الزُدُوحَةُ: خیمہ کے پچھلے حصہ کا پردہ۔ کشادگی

زُوحَةُ الضَّائِدِ: پتھر جن کو شکاری اپنے گھر کے

اورد گرد کھڑا کر لے۔

الزُدَاخَةُ وَالرِدَاخَةُ: بچو کے شکار کے لئے

مکان۔

الْمُرْدَاخُ: گنجانا۔ کشادگی۔

الزُدُجِي: دیانت کا سبزی فروش۔

زُدَخ (ف) زُدَخَانًا: سرتوتنا۔

زُدَس (ن) زُدَسًا: القَوْمُ: پھرانا۔

المَحَائِظُ: گرانہ ڈھانا۔ الزُّجْلُ: ڈیل

کرنا۔ الأَرْضُ: ہموار کرنا۔

بالشَّيْءِ: لے جانا۔ الحَصْبُ بِالْحَصْبِ:

پتھر سے پتھر توڑنا۔

زَادَسَةً: ایک دوسرے پر پتھر پھینکانا۔

تَوَدَسَ مِنْ مَّكَانِهِ: گرنا۔

المِرْدَسُ وَالْمِرْدَاسُ: پتھر توڑنے کا آلہ۔ سر۔

پتھر جو کونوں میں پانی معلوم کرنے کیلئے ڈالا

جائے۔

زُجْلٌ (زُدُوسٌ وَرِدَيْسٌ) بہت دفع کرنے والا۔

زُدَعَةُ (ف) زُدَعًا: عَنِ سَمَكًا: روکنا۔ ہٹانا

۔ هَ بِالشَّيْءِ: تھمیرنا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ"

فَزُدَعِيهِ الأَرْضُ" اس نے لے کر زمین پر پٹک

دیا۔

السَّهْمُ: تیر کے پھل کو بیٹھ جانے کیلئے

زہین پر بارنا۔ الغُرَاةُ: جماع کرنا۔

زُدِعَ: زُدَعَةٌ: خاموش ہونا اور چرے کا رنگ

زرد پڑ جانا۔ زُدِعَ بِهِ: بچھاڑا جانا۔

زُدَعَهُ: بِالزُّعْفَرَانِ: زعفران میں لت پت

کرنا۔

تَوَدِعَ: لت پت ہونا۔

تَوَادِعَ القَوْمِ: ایک دوسرے کو بازار کھنا۔

إِزْدَاعُ: باز رہنا۔ بِالْقَلْبِيبِ: خوشبو سے

لت پت ہونا۔ السَّهْمُ: تیر کا نشانہ پر لگ کر

ٹوٹنا۔

الزُدُوعُ: ہر گردن۔ زعفران۔ جسم میں خوشبو کا

اثر۔ کہا جاتا ہے "زَكِبَ فَلَانٌ زُدَعَةً" جبکہ روکا

جائے اور وہ نہ رکے۔ و "زَكِبَ البَيْعِيُّ زُدَعَةً"

جبکہ وہ گر جائے اور اس کی گردن اس کے جوف

میں داخل ہو جائے۔

فَقَبِيضٌ (زَادِعٌ) قیص جس میں خوشبو کا اثر

ہو۔

الرِدَاغُ: کچھڑیانی۔

الزُدَاغُ: جسم میں خوشبو کا اثر۔ مرض کی واپسی۔

الزُدَيْغُ: بچھاڑا ہوا۔ تَوَدِغٌ: زعفران سے

رنگا ہوا کپڑا۔ سَهْمٌ (زُدَيْغٌ وَ مِزْدَعٌ) تیر جس کا

پھل گر گیا ہو۔

المِرْدَاعُ: محروم واپس آنے والا۔ کابل۔ پست

قد۔ خوشبو کے اثر والا۔

الرِدَاعِلُ: چھوٹے بچے۔

زُدَعْتُ (ف) زُدَعًا: السَّمَاءُ: تھوڑی بارش

برساتنا۔ زُدِعَ بِهِ الأَرْضُ: ٹپک دینا۔

أَزْدَغَ: المَسْكَانُ: بہت کچھڑیالی ہونا۔ صفت

(زُدِعَ)

إِزْدَاعُ: کچھڑیوں پر۔

الزُدُوعُ وَالرِدَاغُ: کچھڑی گارا۔

الزُدَعَةُ وَالزُدَعَةُ: سخت کچھڑی۔ ج: زُدِعَ وَ زُدِعَ

وَرِدَاغٌ وَ زُدَعَاتٌ: مائے زُدَعَةُ: کچھڑیالی۔

الزُدَيْغُ: بچھاڑا ہوا۔ بیوقوف۔

المِرْدَاعَةُ: گلے اور نپٹی کی ہڈی کے درمیان کا

حصہ۔ عمدہ پر رونق باغ۔ ج: مِرْدَاغُ۔

زُدَعَةُ (ف) وَ زُدِفَ لَهُ (س) أَرْدَفًا: پیچھے ہونا۔

زُدَعَةُ وَ زُدِفَ لَهُ: پیچھے سوار ہونا۔ ردیف بنا۔

زُدِفَ الأُمُورَ القَوْمُ: پیش آنا۔

زَادَفَهُ: ردیف بنا۔ کہا جاتا ہے "ذَابَةٌ لَا

تُرَادِفُ" جانور جو ردیف نہیں سوار کرتا۔

أَرْدَفَ: پے در پے ہونا۔ ہ: اپنے پیچھے

سوار کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَابَةٌ لَا تُرَادِفُ" جانور جو

ردیف کو نہیں سوار کرتا۔ أَرْدَفَ الشَّيْءُ وَ

بِالشَّيْءِ وَ غَلَبَهُ: کسی چیز کے پیچھے کسی چیز کو کرنا۔

تم کہتے ہو "أَرْدَفْتُ خَيْلًا عَلَى خَيْلِي لِي" میں

نے اپنے گھوڑے کے پیچھے ایک گھوڑے کو کر

لیا۔ أَرْدَفَ لَهُ: پیچھے آنا۔ الأُمُورَ القَوْمُ:

پیش آنا۔

تَوَادَفَا: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ایک

دوسرے کے پیچھے ہونا۔ ایک کا دوسرے کا پیچھے

سوار ہونا۔ تَوَادَفَتِ الكَلِمَاتُ: کلمات کا ہم

معنی ہونا۔

إِزْدَفَهُ: پیچھے ہونا۔ إِزْدَفَ العَدُوُّ: دشمن کو

پیچھے سے پکڑنا۔ ہ: اپنے پیچھے سوار کرنا۔

تَوَدَفَهُ: پیچھے سوار ہونا۔

إِسْتَوَدَفَهُ: پیچھے سوار کرنے کی درخواست

کرنا۔

الرِدْفُ: پیچھے سوار ہونے والا۔ بیروی کرنے

والا۔ کام کا نتیجہ۔ ہر چیز کا آخری الجاہلیتہ:

زمانہ جاہلیت میں بادشاہ کا ہم نشین جو بادشاہ کی

دائیں جانب بیٹھتا تھا اور تمام کاموں میں بادشاہ کا

عینی سمجھا جاتا تھا اور اگر بادشاہ جنگ میں چلا جایا

کرتا تھا تو وہ بادشاہ کی قائم مقامی کرتا تھا اور جب

فوج واپس آتی تھی تو مال غنیمت کی چوتھائی

وصول کیا کرتا تھا۔ ج: أَرْدَفَ: الزُدْفُ: سرواقع

ستارہ کے قریب ایک ستارہ کا نام۔ الرِدْفَانُ:

رات دن۔

الرِدْفُ وَالرِدْفَانُ: مِنَ الذَّابَةِ: جانور کا

چوڑا۔

الزُدَيْفُ: سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ ج:

رِدْفُ وَ زُدْفَاءُ: سرواقع ستارہ کے قریب ایک

ستارہ کا نام۔ وَالزُدَيْفُ فِي اصطلاح

الجندلیتہ: وہ فوجی جو آزاد کر دیا جائے اور

ضرورت کے وقت بلا لیا جائے۔

الرذافة والزادف۔ زَوَادِف کا واحد ہے اور زَوَادِف درخت خرمائی کے اس پودے کو کہتے ہیں جو درخت خرمائی پر لگ جائے اور اس کی جڑ زمین میں نہ ہو۔ کوہان کے پیچھے حصہ میں یہ بت چلی۔ اگر اگلے حصہ میں ہو تو اس کو زَوَاكِب کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ جَزْوَرَهُمْ لَلذَاتِ زَوَاكِبٌ وَزَوَادِفٌ"
 الزَوَادِف۔ سرخیں۔ پیچھے رہنے والی قوم۔
 الرِوَادِفَةُ۔ بادشاہ کی قائم مقامی۔
 الرِوَادِفِيُّ۔ مددگار لوگ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَهُ وَرِوَادِفِيُّ" وہ لوگ آگے پیچھے آئے۔
 الرِوَادِفِيُّ۔ جانور کے نوزائیدہ بچہ کا پاجانہ جو کچھ کھانے سے پہلے کرے۔
 زَوَدَكَةٌ۔ آراستہ کرنا۔ خوبصورت بنانا۔
 الزَوَدَكُ۔ خوش شکل لڑکا۔ مؤنث زَوَدَكَةٌ۔
 زَدَمٌ (ن) زَدَمًا۔ التَّلْمَعَةُ او التَّابُ: رخسار یا دروازہ بند کرنا۔ القَوْمُ: کمان کو کھینچ کر آواز لگانا۔ البَعِيْرُ: چھوٹا۔
 زَدَمٌ (ن) زَدَمًا۔ الشُّبِيُّ: ہنٹا۔
 السَّحَابُ: ہمیشہ گھرا رہنا۔ الحمِيُّ: ہمیشہ بخار رہنا۔ الشَّجْوَةُ: خشک ہونے کے بعد سبز ہونا۔ زَدَمٌ الشُّبِيُّ: کسی چیز کے ایک حصہ کو دوسرے کے ساتھ جوڑا جانا۔
 أَرْدَمٌ۔ السَّحَابُ: ہمیشہ گھرا رہنا۔
 الحمِيُّ عَلَيَّهِ: ہمیشہ بخار رہنا۔
 زَدَمٌ القَوْمُ: پیوند لگانا۔ التَّاقَةُ عَلَيَّ وَلِدَهَا: اونٹنی کا اپنے بچے پر مریاں ہونا۔
 تَزَدَمٌ قَوْمِيَّةٌ: کپڑے میں پیوند لگانا۔
 القَوْمُ: کپڑے کا بوسیدہ پرانا ہونا۔
 الخَصْمُومَةُ: جھگڑے کا طویل ہونا۔ ہ۔
 درپے ہو کر حقیقت معلوم کرنا۔ التَّاقَةُ عَلَيَّ وَلِدَهَا: اونٹنی کا اپنے بچے پر مریاں ہونا۔
 القَوْمُ الأَرْضُ: زمین کی پیداوار کو بار بار کھانا۔
 الرِّدْمُ: مددگار کالمبہ۔ کمان کی آواز۔
 (و) الرِّدَامُ وَالمَزْدَامُ: ہر وہ چیز جو بے نفع ہو۔
 الرِّدْمُ۔ رخسار کی بندش۔ جَزْوَدَمٌ۔

الرِّدْمُ مِنَ التِّيَابِ: پُرانا کپڑا۔ جَزْوَدَمٌ۔ الأَرْدَمُ: ماہر صلاح۔ ج الأَرْدَمُونُ۔
 قَوْمٌ (مَزْدَمٌ وَ مَزْدَمُونَ) پرانا کپڑا پیوند لگانا ہوا۔
 المَزْدَمُ۔ پیوند لگائی ہوئی جگہ۔ زمانہ جاہلیت کے شاعر عترہ کے قول "هَلْ غَاذَرَ الشُّعْرَاءُ مِنْ مَزْدَمٌ" کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شعراء نے کیا کوئی جگہ پیوند لگانے کی پائی چھوڑی ہے یعنی سب کچھ کہ گئے ہیں اب کسی شاعر کے لئے کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ اس پر کچھ کہہ سکے۔
 زَدَنٌ (ض) زَدَنًا۔ الأَشْيَاءُ: بدبتہ رکھنا۔
 المَرْأَةُ: نکلے پر کانا۔ النَّارُ: آگ۔ لگانا۔
 زِدْنٌ (س) زِدْنًا۔ الجِلْدُ: سکرنا۔
 زَدْنٌ وَأَزْدَنٌ۔ القَمِيصُ: آستین لگانا۔ أَرْدَنْتِ الحمِيُّ: بخار کلدت تک رہنا۔
 إِزْدَنْتِ المَرْأَةُ: کھلانا۔
 الزَدْنُ: آستین کی جڑ۔ آستین کا کشادہ کنارہ۔
 عرب اسی میں درانہم و دنا نیز رکھارتے تھے۔ اسی وجہ سے عمارہ ہو گیا "نُقِلَ رِدْنُهُ" یعنی وہ المدار ہو گیا۔ ج أَرْدَانُ۔
 الزَدْنُ: مدد بخاری کی جھکار۔
 الزَدْنُ: سوت۔ ریشم۔ ج أَرْدَانُ۔
 الزَادِنُ: قازع مفران۔
 احمور (زادینی) سرخ جس میں زردی ملی ہو۔
 الأَرْدَنُ: ایک قسم کا سرخ رنگ کا ریشم۔
 الرِّدْمِيُّ: نیزہ۔ روینہ نامی عورت کی جانب منسوب جو عمدہ نیزہ بنانے میں مشہور تھی۔
 المِزْدَنُ: نکلنا۔
 المِزْدَنُ: تاریک۔ اندھیرے والا۔ عرق مُرْدَنُ: بدبودار بیسنہ۔
 خَيْظٌ (مَزْدُونٌ) ملایا ہوا رھاگا۔
 زَدَةٌ (ف) زَدَهَا۔ فلاتا بحجر: سنگسار کرنا۔
 التَّيْنُ: بڑا مکان بنانا۔
 زَدَةُ الرَّجُلِ: شجاعت یا سخاوت وغیرہ کی وجہ سے سردار قوم بننا۔
 الرِّدْمَةُ: پہاڑ یا چٹان کا گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے سب سے بڑا گھر۔ گھر کی سب سے کشادہ جگہ۔ جَزْوَدَمٌ وَوَاهُ وَوَدَمٌ۔

زَدَى (ض) زَدْيًا وَزَدْيَانًا۔ الشُّبِيُّ: توڑنا۔ ہ۔
 دھکا دینا۔ ہ بخجور: پتھر مارنا۔
 القَوْمُ: گھوڑے کا اچھلے ہوئے دوڑنا۔
 الجَارِيَةُ: لڑکی کا ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پاؤں سے اچھلے ہوئے چلنا۔ فُلَانٌ: جانا۔ تم کہتے ہو "مَا أَذْرَى أَيْنَ زَدَى" میں نہیں جانتا کہاں گیا۔
 فِي البُئْرِ: کنوئیں میں گرنا۔
 فُلَانٌ: بلند پہاڑ سے گرنا۔
 الخَمْسِيْنَ مِنْ عُثْمَرِ: زائد ہونا۔
 زِدَى (س) زِدَى: ہلاک ہونا۔ گرنا۔
 زَدَى الرَّجُلِ: ہلاک کرنا: چادر اڑھانا۔
 فِي البُئْرِ: کنوئیں میں گرنا۔
 مَالَةٌ: زیادہ ہونا۔
 عَلَيَّ الخَمْسِيْنَ: زائد ہونا۔
 القَوْمُ: کلدنا۔
 زَادَى مَزَادَةً الرَّجُلِ: پھسلانا۔ نرمی برتنا۔
 عَنِ القَوْمِ: کسی قوم کی جانب سے دوسروں پر پتھر اڑ کرنا۔
 تَزَدَى: چادر اڑھانا۔ تَزَدَى فِي البُئْرِ: کنوئیں میں گرنا۔
 إِزْدَى: چادر اڑھانا۔ گلے میں تلوار لگانا۔
 إِزْدَنْتِ الجَارِيَةُ: لڑکی کا ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پاؤں سے اچھلے ہوئے چلنا۔
 الرِّدَاءُ: چادر۔ علیا جبہ کی مانند اوپر کی پوشش۔
 جَمِيلٌ: تلوار۔ کمان۔ عقل۔ نادانی۔ باعث زینت۔
 باعث عیب۔ رِدَاءُ الشَّيْبِ: جوانی کی رونق۔
 رِدَاءُ الشَّمْسِ: آفتاب کی روشنی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عُثْمَرُ الرِّدَاءِ" وہ قیاض اور بھلائی کرنے والا ہے و "خَيْفُ الرِّدَاءِ" وہ کم مقروض اور کم عیال والا ہے۔ ج أَرْدِيَّةٌ۔
 الرِّدَاءَةُ: بڑی چادر۔
 الرِّدَاءَةُ: چٹان۔ جَزْدَى:۔
 الرِّدَى: ہلاک ہونے والا۔
 الرِّدَادِيُّ: گونجنے والا شہر۔
 المِزْدَاةُ: لڑائی کا پکڑ۔ اور اسی سے ہے "عَلَيْكَ مِزْوَاةٌ تَلْحُونُ" لڑائی کے پکڑنے آسے ہیں کر رکھ نیا۔
 وَالمِزْدَى: بڑی چادر۔ ازار۔ پتھر توڑنے کا پتھر۔ ج مَرَادِي۔
 المَرَادِي: گھوڑے یا اونٹ کی ٹانگیں زمین پر

<p>الرؤء۔ ج أَرَّاء و (الرؤينة والرؤية) ج رَؤايا: بڑی ملیبیت۔ المُرَّأُ: فِياضِ سخی ج مَرَّؤُونُ والمُرَّؤُونُ: قوم جس کے منتخب لوگ مر گئے ہوں۔ المُرَّؤِنَةُ: بڑی مصیبت۔ رؤبَةُ (ن) اَرَّابًا: مٹے رہنا۔ الإرَّابُ: جھوٹا۔ بڑے ذیل ڈول والا۔ المِرَّؤِيَّةُ و المِرَّؤِيَّةُ: لوہے کی سلاح۔ لوہار کا ہتھوڑا۔ ج مَرَّاب۔ المِرَّؤاب: پرنا۔ بڑی یا لمبی کشتی۔ ج مَرَّاب۔ المُرَّؤبان: فارسیوں کا رئیس۔ ج مَرَّابِنَةُ و (المُرَّؤبَةُ) فارسیوں کی سرداری۔ رُؤح (ف) رُؤحًا و رُؤحًا و رُؤحًا: صفت (زایح) ج رُؤحٌ — الرُؤحُ: کمزوری کی وجہ سے ہاتھ کی چیز چھوٹ جانا — الرُؤحُ بالرمح: نیزہ مارنا (— و أرَّح العنَب: گرے ہوئے انگوڑا اٹھانا (رُؤحًا و تَرَّاحًا) حالہ: بڑا حال ہونا۔ رُؤحُ القافَّة: اونٹنی کو لاغر کرنا۔ إبلٌ أرَّاحی و رُؤحی و رُؤح و رُؤاح لاغر و کمزور اونٹ۔ المُرَّوح: ہموار زمین۔ المِرَّوح و المِرَّوحَةُ: انگوڑی تیل کو زمین سے اٹھانے کیلئے کھڑی۔ ج مَرَّوح۔ المِرَّوح: آواز۔ المِرَّواح: مین الاہلی۔ بہت ہی لاغر اونٹ جو ہلنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو۔ ج مَرَّابیح۔ رُؤحَةُ (ف) أرَّحًا بالرمح: نیزہ چھوٹنا۔ الرُؤحُ: لوگوں کی صف۔ درخت خرما کی قطار (جدید) الرُؤدِاق: رہات اور اس کے ارد گرد کی زمینیں۔ ج رُؤدِاقات و رُؤدِاقُ: أرَّعُ الماءُ: پانی کم ہونا — المَکَانُ: بہت کچھڑ والی جگہ ہونا — المُحْتَفِرُ: کھودنے والے کا کھناک مٹی تک پہنچانا —</p>	<p>نُدُحال ہونا۔ صفت (رذیبی) رُؤدَةُ: مَوْنُث رُؤدِيَّة۔ أرَّدَاه: نُدُحال کر دینا۔ پھینک دینا۔ صفت مفعولی (مُرَّؤی) الرُؤدِيَّة: بیماری سے نُدُحال۔ کمزور۔ لاغر۔ رُؤبُ (ن) أرَّأ۔ العِجْرَادَةُ: مڈی کا انڈے دینے کیلئے م کو زمین میں جھوننا۔ السَّمَاءُ: گرجنا۔ ہ: نیزہ مارنا — الباب: دروازہ میں کٹری لگانا۔ السَّهْمُ فِي الحَايِطِ: تیر کو دیوار میں گاڑنا۔ أرَّؤْتُ العِجْرَادَةَ: مڈی کا انڈے دینے کے لئے م کو زمین میں جھوننا۔ رُؤرُ الرُؤقِ: کافد کو چھٹا کرنا — الأمر: کسی معاملہ کو درست کرنا۔ إرَّؤْتُ السَّهْمُ فِي الحَايِطِ: تیر کا دیوار میں گاڑنا۔ جانا۔ البَحِيضُ عِنْدَ المُسْتَلَةِ: بخیل کا سوال کے وقت بخل کرنا۔ الرُؤرُ: جاول (اُرڑ میں ایک لخت ہے) الرُؤرُ و الرُؤرِيَّة: دور کی آواز۔ بیٹ کی گرجنا۔ اہم کی بادل کی گرج۔ آواز۔ الرُؤرَةُ: زنجیر کا حلقہ جس میں تالا لگایا جاتا ہے۔ کندہ جس کو دیوار یا زمین میں گھوڑا وغیرہ باندھنے کے لئے ٹھونکتے ہیں۔ ج رُؤرَات و رُؤرَات و رُؤرُ: الرُؤرَةُ: بیٹھ میں ایک قسم کا در۔ الرُؤرَان: سیسہ۔ الرُؤرَان: جاول کا سودا گر۔ الإرَّؤنُ: کچی۔ نیزہ کا گھٹنا۔ جھونے والے۔ لمبی آواز والا۔ الرُؤرِيَّة: ایک قسم کی نباتات جو رنگنے کے کام میں آتی ہے۔ رُؤرِيَّة التَّوْعُدِ: گرج کی آواز۔ المُرَّؤرُ مِنَ الطَّعَامِ: جاول سے تیار کیا ہوا کھانا۔ المُرَّؤرَةُ: جاول آگنے کی جگہ یا وہ جگہ جہاں جاول جمع کئے جائیں یا جہاں جاول بست ہوں۔ رُؤرُ (ف) رُؤرًا و رُؤرًا و مَرَّؤِنَةُ: الرُؤحُ مَالَهُ: کچھ حاصل کرنا۔ کم کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُؤرُؤرًا" یعنی وہ سخی ہے لوگ اس کے فضل کو حاصل کرتے ہیں — و رُؤرِي (س) رُؤرًا و إرَّؤرًا۔ الرجل: بھلائی حاصل کرنا۔ إرَّؤرَةُ الشَّيْءِ: کم کرنا۔ و إرَّؤرًا الشَّيْءِ: کم ہونا۔</p>	<p>پاؤں کو کھینچنے والا گھوڑا۔ المرادی: ہاتھی۔ المُرَّؤِيَّة: سلاح کا چھو۔ ج مَرَّادِيَّة۔ رُؤدُ (ن) رُؤدًا و أرَّؤدُتُ السَّمَاءُ: چھوڑا برسانا۔ و أرَّؤدُتُ القُرْبَةَ: بہر پڑنا۔ الرُؤدَا: چھوڑا۔ الرُؤدُف: اتری ہوئی کھال۔ جھوننے کے لئے بالوں سے صاف کیا ہوا بکری کا بچہ۔ سالہ ملا کر پکا ہوا گوشت۔ ج رُؤدِاق۔ الرُؤدِکَةُ: بکری کے جھونے سے بچے۔ ج رُؤدِاک۔ رُؤدُل (ک) رُؤدُل (س) و رُؤدَالَةُ: قابلِ حُفارت ہونا۔ صفت ہونا۔ صفت (رُؤدُل) ج أرَّؤدَال و رُؤدَال و رُؤدُل و رُؤدُلُون و رُؤدِل (ج رُؤدَال و رُؤدَال۔ رُؤدُکَةُ (ن) رُؤدَالًا و أرَّؤدُکَةُ: حقیق کرنا۔ ناپسند کرنا۔ حقیق سمجھنا۔ أرَّؤدُل: بڑا کام کرنا۔ کینوں کا ساتھی ہونا — حقیق کرنا۔ ناپسند کرنا۔ حقیق سمجھنا۔ الرُؤدَاهِم: کھونے کر کے واپس کرنا۔ إسْتَرَّؤدُلُهُ: حقیق سمجھنا۔ الرُؤدَال: حقیق و کینہ (— و الرُؤدَالَةُ: چیز کا روی حصہ۔ رُؤدَالَةُ کُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا گھٹیا۔ الرُؤدِیَّة: تالائق۔ بڑی عادت۔ ج رُؤدِائِل۔ الأرَّؤدُل: اسم تفضیل۔ گھٹیا۔ روی۔ ج أرَّؤدُل و أرَّؤدُلُون۔ المُرَّؤِل: رذیل ساتھیوں والا یا حقیق جانور والا۔ رُؤدَم (ن) أرَّؤدَمًا و رُؤدَمَانًا و رُؤدَم (س) رُؤدَمًا و أرَّؤدَم۔ الإِنَاءُ: لباب ہو کر بنا۔ صفت (رُؤدَم) و أرَّؤدَم عَلَى الحَمْسِینِ مِیْن عَصْرِهِ: زائد ہونا۔ الرُؤدَم و الرُؤدَمَان: مِنَ النَّاسِ: متفرق جماعت۔ کہا جاتا ہے "رُؤدَمَانِ رُؤدَمَانِ النَّاسِ" میں نے لوگوں کی متفرق جماعت دیکھی۔ "و کَانَ فِی رُؤدَمَانِ مِنَ النَّاسِ" وہ ایسی جماعت میں تھا جس کے افراد بہت نہیں تھے۔ الرُؤدَام و الرُؤدَم: کمزور جس میں مروت نہ ہو۔ الرُؤدُوم: بننے والا۔ لباب پیالہ جس میں سے گرے۔ ج رُؤدُوم و رُؤدَم۔ رُؤدِی (س) رُؤدَاؤة و أرَّؤدِی: بیماری سے</p>
---	---	--

المظور الارض : بارش کا زمین کو تر کر دینا
 الزجل : حیب سے آلودہ کرنا _____ فی
 فلان : بہت تکلیف پہنچانا، حشرات کرنا، عیب
 لگانا، طعن و تشنیع کرنا۔
 رزاعہ : کشتی کرنا اور فریب دینا۔
 استرزاعہ : کمزور سمجھنا۔
 الرزاعۃ : پتلا گارا۔ کچھڑ۔ ج رزغ رزاع۔
 الرزغ : تری۔
 الرزغ والرزاع : کچھڑ میں پھنسا ہوا۔
 رزف (ض) رزفعا و رزف و آرزف الیہ :
 آگے بڑھنا _____ الحصل : اونٹ کا بلبلانا۔
 دوڑنا۔ رزف الاثر : قریب ہونا۔ آرزف
 الناقۃ : ذکی چلانا۔ آرزف القوم : جلدی سے
 نکلت وغیرہ میں پھنسانا۔
 ناقۃ (رزوف) کشادہ قدم تیز رفتار اونٹنی۔
 رزافات۔ البلید : شہر کے قریب کی جگہیں۔
 رزفۃ (ان) رزفا۔ روزی پہنچانا۔ کہا جاتا ہے
 ”رزفۃ اللہ العنی“ اللہ سے تو انگری دے۔
 رزقی : روزی پانا۔ خوش نصیب ہونا۔
 ارتزاقہ : روزی مانگنا _____ الجند : روزی
 لینا۔
 استرزاقہ : روزی مانگنا۔
 الرزق : روزی۔ ج آرزاق۔ بارش۔
 الرزق الحسن : بغیر محنت و مشقت کے حاصل
 ہونے والی روزی (_____ والرزقۃ ج
 رزقات۔ سپاہیوں کی رسد۔ کہا جاتا ہے
 ”أخذت رزقۃ۔ هذا الشهر أو هذا العام“
 میں نے اس مہینے یا اس سال کی رسد لے لی۔
 الرزاقی : کمزور۔ ایک قسم کا لمبا سفید انگور۔
 شراب۔
 الرزاقیۃ : کتاں کے سفید کپڑے۔ شراب۔
 الرزاق : روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء
 حسنی میں سے ہے (صرف باری تعالیٰ پر اطلاق
 ہوتا ہے)
 المرزوق : منہ۔ جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔
 المرزوقۃ : وہ لوگ جنہوں نے اپنی رسد
 حاصل کر لی ہو۔
 المرزوق : منہ خوش نصیب۔

رزم (ان) رزما۔ الشی : جمع کر کے باندھنا
 بالشی : پکڑنا _____ علی عدوۃ :
 دشمن پر غالب ہونا اور چڑھ بیٹھنا _____
 الرزمل : مرنا _____ الاہیہ : جنا۔
 رزم (ض) رزوما و رزاما۔ البعیر۔ اونٹ کا
 لاغری کی وجہ سے اٹھ نہ سکتا۔ صفت (رازم) ج
 رزام (_____ رزماۃ الشیاء : سرد ہونا۔
 رزم۔ الیشاب : کپڑوں کا گھڑی میں باندھنا۔
 القوم : کسی جگہ میں چٹ کر رہنا۔
 رازم : بیٹھنا : جمع کرنا _____ فی
 المظاعم : بدل بدل کر کھانا کھانا _____ الدار :
 دیر تک رہنا۔
 آرزم۔ الرعد : سخت گرجنا۔ آرزمت الناقۃ :
 پتہ کیلئے آواز نکالنا۔ کہا جاتا ہے ”لا أفعله ما
 آرزمت أم خانیل“ میں اس کام کو جب تک
 اونٹنی آواز نکالتی رہے گی نہیں کروں گا۔
 إرزام إرزیمانما : غضبناک ہونا۔
 الرزماۃ : دن میں ایک مرتبہ کھانا۔
 الرزماۃ : من الیشاب و غیرہا : گھڑی۔ ج
 رزم۔
 الرزماۃ : بچے کی آواز۔ تیز آواز۔ پتہ پر مریان
 ہونے کے وقت بغیر منہ کھولے ہوئے صرف حلق
 سے نکلنے والی اونٹنی کی آواز اور اسی سے مثال ہے
 ”لا تخیر فی رزماۃ لا ذرۃ فیہا“ اس اونٹنی کی
 آواز سے کوئی فائدہ نہیں جس سے دودھ حاصل
 نہ ہو۔ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو وعدہ
 کرے اور پورا نہ کرے یا اس کے حق میں جو
 چالیسی کرے اور کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔
 غیث (رزم) وہ بارش جس میں بادل کی گرج
 ختم نہ ہو۔
 الرزام : سخت مرد۔ ج رزوم۔
 أسد رزماۃ و رزام) اپنے شکار پر چڑھ بیٹھنے والا
 شیر۔
 الرزوم : شیر کی گونج۔
 الرزام والمرزوم : اپنے شکار پر جگر لگانے والا
 اور غراے والا شیر۔ کہا جاتا ہے ”تروکنۃ
 بالمرزوم“
 المرزوم : گھڑی باندھنے کی چیز جیسے رسی۔

أم المرزوم : باوشالی یا مطلقا ہوا۔
 المرزومان : دوستارے جو دونوں شعری کے
 ساتھ ہوتے ہیں اور ان دونوں کو محسوس سمجھا
 کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ”لا تخیر فی
 الزمان ما طلع المرزومان“ یعنی اس زمانہ میں
 غیر نہیں جب مرزبان طلوع ہوں۔
 رزن (ان) رزنا۔ الشی : ہاتھ سے اٹھا کر وزن
 کا اندازہ کرنا _____ بالمکان : اقامت کرنا۔
 رزن (ک) رزناۃ : سنجیدہ ہونا۔ باوقار ہونا۔
 بھاری بھرکم ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت مذکر
 (رزنین) صفت مؤنث (رزان) رزینہ نہیں بولا
 جاتا۔
 رزان۔ الرزق : دوست ہونا۔ ساتھ آرتنا۔
 تزاننا : ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔
 تزرن : فی الامر اوفی مجالیسہ : سنجیدہ و
 صاف رائے ہونا۔
 الرزن والرزن : بلند جگہ جس میں پانی رزک
 جائے۔ ج رزن و رزان و آرزان۔ الرزن : کنارہ۔
 الرزناۃ : پانی جمع ہونے کی جگہ۔ ج رزان۔
 الارزن : سخت گڑھی کا ایک درخت جس کی
 لکڑی سے لاشی بناتے ہیں۔
 الرزین : ساکن۔ پختہ رائے والا۔ کہا جاتا ہے
 ”هو رزین الزای“
 الرزناۃ : روشن دان۔ ج رزوان۔
 رزی (ض) رزنا۔ فلانا : احسان قبول کرنا۔
 أرزی (ارزناۃ) البیو أرزی الیہ ظہورہ : سارا
 لینا۔ چاہ لینا۔
 رس (ان) رسا۔ البئر : کنواں کھودنا _____
 الشی : دھنسا _____ لہ الخیر : بیان کرنا
 المیت : میت کو دفن کرنا _____
 خیرہم : معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ یتیمہم :
 صلح کرنا۔ فساروا لنا _____ (ضد) _____ رسا
 ورسبسا و آرزس السقم فی حسدہ : بیماری
 کا لازم ہو کر ٹھہر جانا۔
 راسہ مراسۃ۔ بالامر : کسی کام کی کسی کے
 ساتھ ابتدا کرنا۔
 تراس۔ القوم الخیر : رازدارانہ کتنا۔
 ارتس۔ الخیر فی الناس : پھیلانا۔ ظاہر ہونا۔

<p>أَرْسَفَ - الذَّابَّةُ: بندھے ہوئے پاؤں والے جانور کو کہا لگنا۔ إِزْسَفَ - الشَّيْءُ: بلند ہونا۔ رَسِلَ (س) رَسَلًا وَرَسَالَةً - الشَّعْرُ: بالوں کا سیاہ لٹکا ہوا ہونا۔ التَّبِيْضُ: اونٹ کا نرم چال والا ہونا۔</p>	<p>الرَّسَدُ وَالرَّسَدَانُ بِمَعْنَى الرَّوْذَقِ وَالرَّوْذَاقِ - رَسَعَ (ف) رَسْعًا - الرُّسْعُ: خراب اور وحیلا ہونا۔ عَيْتُهُ: جتنے ہوئے پونے والی ہونا۔ الرُّسْعِيُّ: بچہ کو نظر بند سے بچانے کے لئے ہاتھ یا پیر میں مرہ باندھنا۔</p>	<p>الرُّسْمُ - برائے اتواں - علامت - معدن ہر چیز کی ابتداء - بخار کی ابتداء - کہا جاتا ہے "بَدْرُ رَسْمٍ حُشِي" اسے بخار کی ابتداء ہے - رَسْمُ الحَبْتِ: آغازِ حجت - بقیہ حجت - اثر حجت - کہا جاتا ہے "بَلَّغْنِي رَسْمَ مِنَ الخَبْرِ" مجھے خبر کا کچھ حصہ پہنچا۔ الرُّسْمَةُ - مضبوط ستون۔ الرُّسْمَةُ الأَرْسُوسَةُ - ثوبی۔ الرُّسْمِيَّةُ - ثابت - عاقل - غیر صحیح خبر ریح رَسْمِيَّةٌ: نرم ہوا۔ رَسْمِيَّةٌ الحُشِيَّةُ: بخار کی ابتداء۔ رَسْمِيَّةٌ الحَبْتِ: آغازِ حجت - بقیہ حجت - اثر حجت۔ الرُّسْمِيُّ - نیلہ - بڑی بوند کی بارش۔</p>
<p>رَسَلَ - فِي القِرَاءَةِ: خوش آوازی سے پڑھنا۔ آهَسَتْ آهْسَةً دَرَسَتْ كَيْ سَاخَرَهُ يَهْدُنَا - الفُضْلَانُ: اونٹ کے تپوں کو دودھ پلانا۔ رَسَلْنَا - فِيهِ وَعَلَى وَبِالْأَمْرِ: خط و کتابت کرنا۔ رَسَلْنَا العَفَاءَ: گالے میں مقابلہ کرنا۔ أَرْسَلْنَا - بِمِجْمَا - جھوڑنا۔ أَرْسَلَ القَوْلُ: بلا قید بولنا۔ فَلَا تَأْتِ عَلَيْهِ: مسلط کرنا۔ أَرْسَلَ بِهِ إِلَيْهِ: پیغام کے ساتھ بھیجنا۔ قَوْلُهُ مَثَلًا: اپنے قول کو ضرب المثل بنانا۔ تَرَسَّلَ - نَزِيًّا - آہنگی کرنا۔ رسول ہونے کا دعویٰ کرنا۔ فِي الرَّسُولِ: اپنی ٹانگوں پر کپڑے ڈال کر جانور کی پیٹھ پر پھیلاتا۔ فِي القَعْدُوْدِ: وارد گرد اور ٹانگوں پر کپڑے ڈال کر چار زانو بیٹھنا۔</p>	<p>رَسِبَ (س) رَسَبًا - خراب پونوں والا ہونا۔ صَفَتْ (أَرْسَع) عَيْتُهُ: خراب پونوں والی ہونا۔ صَفَتْ (رَسَعًا) - بِهِنَّ الشَّيْءُ: چھٹنا۔ رَسَعَ - خراب گوشہ چشم والا ہونا۔ کسی مقام پر جم کے رہنا۔ الشَّيْءُ: چپکانا۔ السَّيْرُ: ایک تسمہ کو بھاڑ کر اس میں دوسرے تسمہ کو داخل کرنا۔ الرُّسْعِيُّ: بچہ کو نظر بند سے بچانے کے لئے ہاتھ یا پیر میں مرہ باندھنا۔ الرُّسَاعَةُ - ج رَسَاعٍ: گلواری پر تے کے نچلے حصہ میں گندھے ہوئے تے۔ الرُّسُوْعُ: کمان کے وسط میں گندھے ہوئے تے۔</p>	<p>الرُّسْبُ - بڑی بوند کی بارش۔ رَسَبَ وَرَسَبَ (ن و ك) رَسُوْبًا وَرَسْبًا - الشَّيْءُ فِي المَاءِ: نشین ہونا۔ العَيْنُ: آنکھ اندر کودھنس جانا۔ أَرْسَبَهُ - بِيْحًا تَارَةً - الرُّوْسِبُ وَالرُّوْسُوْبُ - مِنَ الرِّجَالِ: حلیم - بردبار - ثابت قدم۔ الرُّوْسَبُ وَالرُّوْسَبُ وَالرُّوْسُوْبُ وَ المِزْسَبُ - مِنَ الشَّيْوْفِ: اندر کو کھس جانے والی تلواریں۔ الرُّوْسَبُ - بلا - ممیبت۔ الرُّوْسَاقُ - دہشت - ج رَسَاتِيْقُ۔</p>
<p>تَرَسَّلَ - القَوْمُ: باہم خط و کتابت کرنا۔ اسْتَرْسَلَ - الشَّعْرُ: بالوں کا سیدھا ہونا۔ لگنا۔ الشَّيْءُ: نرم ہونا۔ إِلَيْهِ: بے تکلفی برتنا۔ فِي الكَلَامِ: گفتگو میں وسعت کرنا۔ الرُّسُلُ - مِنَ السَّيْرِ: نرم چال۔ مِنَ الشَّعْرِ: لگنے ہوئے بال۔ مِنَ الإِبِلِ: نرم چال والا اونٹ۔</p>	<p>رَسَعَ - المَقْلُوْدُ: نچنے تک برسنا۔ الرُّسْعِيُّ: وسیع کرنا۔ الكَلَامُ: دو قسم کی باتوں کو ایک میں ملانا۔ رَسَعَةً - كَمَا يَكُوْنُ كَيْ بَحَاؤُرِيْنَا - إِزْسَعَ - عَلَيَّ عِيَالِي: نفقہ میں وسعت کرنا۔ الرُّسْعُ وَالرُّوْسَعُ - كَمَا - بِيْحًا - ج أَرْسَاعٌ وَأَرْسَعٌ۔</p>	<p>رَسَبَ (ن) رَسُوْبًا - كَمَا جَاءَ فِي "رَسَعَ العَجِيْبُ فِي الصَّحِيْفَةِ" روشنائی کتاب میں جم گئی۔ "وَرَسَعَ العِلْمُ فِي القَلْبِ" علم دل میں جا کر نہیں ہو گیا۔ وَفُلَانٌ رَسِبَ فِي العِلْمِ فَلَانَ مَضْبُوْبٌ عِلْمٌ وَالا سَهْ - العَدِيْبُ: تالاب کا پانی نیچے آگیا۔ أَرْسَعًا - كَأَنَّهَا ثَابِتٌ كَمَا مَضْبُوْبٌ كَرْنَا - تَرَسَّعَ - فِي التَّقْيِ: پرہیزگاری میں راح ہونا۔</p>
<p>الرُّسَلُ - نَزِيًّا - آسودگی - دودھ - گھوڑے کے بازو کا کنارہ۔ ج رَسَال - الرُّسَالُ: اونٹ کی ٹانگیں (الرُّسُلُ وَالرُّسَالَةُ) آہنگی - نرمی - کہا جاتا ہے "عَلَى رَسَلِكُ يَارِجُلٌ" یعنی اسے ہنس آہستہ و باوقار رہنے والی رَسَالَةُ: جماعت - کہا جاتا ہے "جَاءَهُ وَرَسَالَةٌ" یعنی وہ گروہ گروہ آئے۔ الرُّسَلُ - مہ - جماعت - گروہ - رِیْوُزُ - ج أَرْسَالٌ۔</p>	<p>الرُّسْعِيُّ: کاشادہ زندگی - مِنَ الطَّغَامِ: بہت خوراک۔ الرُّسَاعُ - وہ رستی جس کو جانور کی اگلی ٹانگ کے گٹے میں باندھ کر کھونٹے وغیرہ میں باندھ دیتے ہیں۔ الرُّسُوْعُ - مِنَ الأَرَاوِ: کمزور و نادرست رائے۔ رَسَفَ (ن ض) رَسْفًا وَرَسِيْفًا وَرَسْفَانًا - پائوں بندھے ہوئے کی طرح چلنا۔</p>	<p>رَسَبَ (ن) رَسُوْبًا - كَمَا جَاءَ فِي "رَسَعَ العَجِيْبُ فِي الصَّحِيْفَةِ" روشنائی کتاب میں جم گئی۔ "وَرَسَعَ العِلْمُ فِي القَلْبِ" علم دل میں جا کر نہیں ہو گیا۔ وَفُلَانٌ رَسِبَ فِي العِلْمِ فَلَانَ مَضْبُوْبٌ عِلْمٌ وَالا سَهْ - العَدِيْبُ: تالاب کا پانی نیچے آگیا۔ أَرْسَعًا - كَأَنَّهَا ثَابِتٌ كَمَا مَضْبُوْبٌ كَرْنَا - تَرَسَّعَ - فِي التَّقْيِ: پرہیزگاری میں راح ہونا۔</p>
<p>أَرْسَلْنَا - فِيهِ وَرَسَلْنَا - ج أَرْسَالٌ۔ الرُّسَالَةُ - كَاللِّ وَرَأْسِي سَهْ - "رَسَلَ" فِيهِ رَسَلْنَا نَاقَةً رَسَلَةً - نرم چال والی اونٹنی - کہا جاتا ہے "هَمُّ فِي رَسَلَةٍ مِنَ العَيْشِ" وہ لوگ</p>	<p>رَسَعَ (ف) رَسْعًا - الرُّسْعُ: خراب اور وحیلا ہونا۔ عَيْتُهُ: جتنے ہوئے پونے والی ہونا۔ الرُّسْعِيُّ: بچہ کو نظر بند سے بچانے کے لئے ہاتھ یا پیر میں مرہ باندھنا۔ رَسِبَ (س) رَسَبًا - خراب پونوں والا ہونا۔ صَفَتْ (أَرْسَع) عَيْتُهُ: خراب پونوں والی ہونا۔ صَفَتْ (رَسَعًا) - بِهِنَّ الشَّيْءُ: چھٹنا۔ رَسَعَ - خراب گوشہ چشم والا ہونا۔ کسی مقام پر جم کے رہنا۔ الشَّيْءُ: چپکانا۔ السَّيْرُ: ایک تسمہ کو بھاڑ کر اس میں دوسرے تسمہ کو داخل کرنا۔ الرُّسْعِيُّ: بچہ کو نظر بند سے بچانے کے لئے ہاتھ یا پیر میں مرہ باندھنا۔ الرُّسَاعَةُ - ج رَسَاعٍ: گلواری پر تے کے نچلے حصہ میں گندھے ہوئے تے۔ الرُّسُوْعُ: کمان کے وسط میں گندھے ہوئے تے۔ الرُّسْبُ - بڑی بوند کی بارش۔ رَسَبَ وَرَسَبَ (ن و ك) رَسُوْبًا وَرَسْبًا - الشَّيْءُ فِي المَاءِ: نشین ہونا۔ العَيْنُ: آنکھ اندر کودھنس جانا۔ أَرْسَبَهُ - بِيْحًا تَارَةً - الرُّوْسِبُ وَالرُّوْسُوْبُ - مِنَ الرِّجَالِ: حلیم - بردبار - ثابت قدم۔ الرُّوْسَبُ وَالرُّوْسَبُ وَالرُّوْسُوْبُ وَ المِزْسَبُ - مِنَ الشَّيْوْفِ: اندر کو کھس جانے والی تلواریں۔ الرُّوْسَبُ - بلا - ممیبت۔ الرُّوْسَاقُ - دہشت - ج رَسَاتِيْقُ۔ رَسَبَ (ن) رَسُوْبًا - كَمَا جَاءَ فِي "رَسَعَ العَجِيْبُ فِي الصَّحِيْفَةِ" روشنائی کتاب میں جم گئی۔ "وَرَسَعَ العِلْمُ فِي القَلْبِ" علم دل میں جا کر نہیں ہو گیا۔ وَفُلَانٌ رَسِبَ فِي العِلْمِ فَلَانَ مَضْبُوْبٌ عِلْمٌ وَالا سَهْ - العَدِيْبُ: تالاب کا پانی نیچے آگیا۔ أَرْسَعًا - كَأَنَّهَا ثَابِتٌ كَمَا مَضْبُوْبٌ كَرْنَا - تَرَسَّعَ - فِي التَّقْيِ: پرہیزگاری میں راح ہونا۔</p>	<p>رَسَبَ (ن) رَسُوْبًا - كَمَا جَاءَ فِي "رَسَعَ العَجِيْبُ فِي الصَّحِيْفَةِ" روشنائی کتاب میں جم گئی۔ "وَرَسَعَ العِلْمُ فِي القَلْبِ" علم دل میں جا کر نہیں ہو گیا۔ وَفُلَانٌ رَسِبَ فِي العِلْمِ فَلَانَ مَضْبُوْبٌ عِلْمٌ وَالا سَهْ - العَدِيْبُ: تالاب کا پانی نیچے آگیا۔ أَرْسَعًا - كَأَنَّهَا ثَابِتٌ كَمَا مَضْبُوْبٌ كَرْنَا - تَرَسَّعَ - فِي التَّقْيِ: پرہیزگاری میں راح ہونا۔</p>

نری و آسودگی میں ہیں۔ الزمّلة: وہ عورت جس کی پنڈلیوں پر بہت اور لمبے لمبے بال ہوں۔
الرِسَالَةُ وَالرِسَالَةُ: پیغام۔ پیغامبری خط۔ ج رسائل و رسالات۔
الرِسُولُ: بھیجا ہوا۔ پیغام بر۔ پیغامبری۔ تیر اندازی وغیرہ میں جو تمہارا موافق ہو۔ ج رُسُل و رُسُل و رُسُل و رُسُل و رُسُل: چھوٹی پٹی جو ابھی اوڑھنی نہ ڈالتی ہو۔

الرِسُولُ: بھیجا ہوا۔ پیغام بر۔ پیغامبری۔ پیغام بھیجنے والا۔ تیر اندازی وغیرہ میں جو تمہارا موافق ہو۔ گھوڑ دوڑ میں دوڑنے والا گھوڑا۔ کشادہ۔ سائز۔ بیٹھاپائی۔ ج اُرْسُل و رُسُل و رُسُل۔
الرِسَالَةُ: الرِسَالَةُ کی تفسیر۔ کہا جاتا ہے "الْقِي الْكَلَامَ عَلَى رُسَيْلِيهِ" یعنی اس نے بے اتفاقی کی۔

الرِسَالَةُ: لہذا ہر جو سینہ تک واقع ہو۔ ج مُرْسَلَات۔ الرِسَالَات: ہوا میں یا فرشتے یا گھوڑے۔
الرِسَالُ: چھوٹا تیر۔ پیغامبر۔ نَافَةُ مِرْسَالٍ: نرم رفتار اونٹنی۔ ج مِرْسَالُ

رِسْم (ن) رِسْمًا: المَطَرُ الذِّيَار: مٹا کر زمین سے ملا ہوا نشان باقی رکھنا۔ لَهْ كَذَا: حکم دینا۔ عَلَى كَذَا: لکھنا۔ الرِسْمُ: لکھنا۔
نَحْوُهُ: دوڑتے ہوئے جانا۔ ہ۔
الرِسْمَةُ: گرجا کا کوئی عمدہ دینا۔ اسم "الرِسْمَةُ" ہے۔

رِسْم (ص) رِسْمًا: البَيْهِيُّ: پاؤں کا نشان چھوڑنا۔ تیز چلنا۔ صفت (رِسْمٌ)

رِسْم: العَرَبُ: دھاری دار بتانا (۔۔۔) و اُرْسِمُ النَافَةَ: چلا کر پاؤں کے نشان ڈالنا۔
رِسْمٌ: الدَّارُ: گھر کے نشانات وغیرہ غور سے دیکھنا۔ الشَّيْءُ: یاد کرنا۔ البَانِيُّ و الحَاوِي: عمارت بنانے یا کھودنے کیلئے زمین دیکھنا۔

اِرْسَمَ: الأَمْرُ: فرمانبرداری کرنا۔ کہا جاتا ہے "رِسْمٌ لَهْ كَذَا" اِنَّا رَسَمْنَا "اس نے اس کو فلاں حکم دیا اور وہ بحال آیا۔ لِلَّهِ تَعَالَى: تکبیر کہنا اور دعا کرنا۔ الرِسْمُ: گرجا کے کسی عمدہ

پر پہنچنا۔

الرِسْمُ: مہ۔ گھر کے مٹے ہوئے نشانات۔ مٹی میں دیا ہوا کٹواں۔ کسی چیز کا خاکہ۔ علامت۔ غیر واقعی جیسے شاعر کے قول میں "أَزَى وَدَكْمٌ" رَسْمًا و رِسْمًا حَقِيقَةً میں تمہاری دوستی کو غیر واقعی اور اپنی دوستی کو واقعی سمجھتا ہوں۔ ج رِسْمٌ و اُرْسِمُ۔ معاملہ۔ عِنْدَ أَهْلِ الْجِنَابَةِ: نکلیں۔

الرِسْمُ: ہوتا ہوا پانی۔
الرِسْمُ: رفتار کی خوبی۔
الرِسْمُ: ج رِسْمٌ و اُرْسِمُ (ج الرِسْمُ) ج رِسْمٌ: مہ۔ مٹے وغیرہ پر مہر کرنے کی چیز۔ کھدی ہوئی لکڑی جس سے غلہ کے ڈھیر پر مہر کی جائے۔
الرِسْمُ: علامت۔ نشان۔ صیبت۔ الرِسْمُ: زمین پر پاؤں کے نشان ڈال کر چلنے والے اونٹ۔
واحد (الرِسْمُ و رِسْمَةٌ)

الرِسْمُ: مہ۔ لکھا ہوا۔ سرکلر۔ ج مِرْسِمٌ و مِرْسِمٌ۔
الرِسْمُ: نقش کرنے والا۔ نقش بنانے والا۔
الرِسْمَانُ و الرِسْمُ: زمین پر نشان ڈالتے ہوئے اونٹ کی چال۔

رِسْم (ن) رِسْمًا و اُرْسِمُ: الدَّابَّةُ: جانور کے سر میں رستی ڈالنا۔ رِسْمٌ و اُرْسِمُ: الدَّابَّةُ: جانور کو چرنے کیلئے آزاد چھوڑ دینا۔ اور اسی سے ہے "رِسْمِي بَرَسِيهِ عَلَى عَارِيهِ" اس نے اس کے کندھے پر اس کی رستی ڈال دی یعنی اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ اُرْسِمُ: المَهْرُ: پھیری کا نالغ ہونا۔ گردن میں رستی ڈالنے کے لئے سرے دینا۔

الرِسْمُ: جانور کے گلے میں ڈالنے کی رستی۔ ج اُرْسِمُ و اُرْسِمُ۔
الرِسْمُ و الرِسْمُ: مِنَ الدَّابَّةِ: رستی ڈالنے کی جگہ۔ ج مِرْسِمٌ۔ تاک۔

رِسْمًا و رِسْمًا: مہرنا۔ ثابت ہونا۔ استوار ہونا۔ صفت مذکر (راس) صفت مؤنث (راسية) ج رِسْمٌ و رِسْمٌ: رست السَّقِيَّةُ: لنگر انداز ہونا۔ رِسْمٌ القَوْمُ: صلح کرنا۔ عِنْدَ حَدِيثًا: کسی سے روایت کرنا۔ لَهْ الحَدِيثُ: کسی کے سامنے کچھ حصہ بیان کرنا

الرِسْمُ: روزے کی نیت کرنا۔

رِسْمِي: ہ۔ تیراکی میں مقابلہ کرنا۔
اُرْسِمِي: اِرْسِمًا: الشَّيْءُ: ٹھہرنا۔ ثابت ہونا۔ استوار ہونا۔ السَّقِيَّةُ: کشتی کو لنگر انداز کرنا۔ الرِسْمُ: الأَرْضُ: کھونٹے کو زمین میں گاڑنا۔

الرِسْمُ: خبر کا ایک حصہ۔
الرِسْمِي: فا۔ قَدْرًا رِسْمِيَةً: ایک جگہ پر رہنے والی بڑی ایک۔

الرِسْمِي: مضبوط پہاڑ۔
الرِسْمِي: ثابت۔ خیمہ کے درمیان کا تھم۔
الرِسْمِي: بندرگاہ۔ ج مِرْسِمٌ۔

الرِسْمِي: مہ۔ باری تعالیٰ کے قول "بِنَسْأَلِكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسِمُهَا" کے معنی یہ ہیں کہ "لوگ آپ (ﷺ) سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی؟"

الرِسْمَةُ: کشتی کا لنگر۔ ج مِرْسِمٌ۔ کہا جاتا ہے "الرِسْمَةُ مِرْسِمِي" یعنی اس نے قیامت کی "وَالْقَبْرِ السَّحَابِ مِرْسِمِيهَا" بادل جم کر برسنا۔

رِسْم (ن) رِسْمًا و رِسْمًا: المَاءُ: پانی چھڑکنا۔ السَّمَاءُ: آسمان کا پھوار برسنا۔ الشَّيْءُ: دھونا۔

اُرْسِمْتُ: السَّمَاءُ: آسمان کا پھوار برسنا۔
الرِسْمَةُ: کشادہ زخم ہونے سے خون پھیل کر لکھنا۔ السَّوَاءُ: بھونے ہوئے گوشت سے چرپی ٹپکانا۔ الرِسْمُ: گھوڑے کو دوڑا کر پھینکنا۔

رِسْمًا: عَلَيْهِ المَاءُ: متفرق چھینٹے پڑنا۔ برنا۔ الرِسْمُ: مہ۔ پھوار۔ ج رِسْمًا: تھکاف دہار۔
الرِسْمُ: پانی خون وغیرہ کا چھیننا۔
الرِسْمَةُ: پانی وغیرہ چھڑکنے کا آلہ۔

رِسْمًا (ف) رِسْمًا: الرِسْمُ: ہرن کا قوی ہو کر ماں کے ساتھ چلنا۔ الرِسْمَةُ: ہرن کا جھنڈا۔ الرِسْمُ: ہرن کا پتھر یا وہ جو چلنے لگے۔ ج ارشاد۔ الرِسْمَةُ: مغز سے خالی ناریل جس سے پانی نکالیں۔
الرِسْمَةُ: مٹی جس سے ٹھکوں کا مہر بنا کر

دیں۔

رَشَحَ (ف) رَشَحًا وَرَشَحَانًا وَأَرَشَحَ
وَأَرَشَحًا: الإِنَاءُ: برتن کا چمکانا۔ رَسًا
الْحَمْدُ: مدح کا بیان والا ہونا وَرَشَحَ الظَّمِي:
ہرن کا اچھلنا۔ کودنا۔ کہا جاتا ہے "لَمْ يَرَشَحْ لَهَا"
بِشَيْءٍ "اس نے اس کو کچھ نہیں دیا۔
رَشَحَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا رَشَحًا وَأَرَشَحَتْهُ
وَرَشَحَتْهُ: اونٹنی کا اپنے بچے کی دم کی جز کو اپنے
سر سے رگڑنا اور آگے بڑھانا اور خود ٹھہر ٹھہر کر
جانا تاکہ بچے اس سے لائق رہے۔ صفت (رَشَحَ)
مُرَشِحٌ وَمُرَشِحَةٌ
رَشَحَ: بے بند سے ترونا۔

رَشَحَ: المَالُ: بہتر انتظام کرنا۔ الوَلَدُ:
پرورش کرنا اور کام کے لائق بنانا اور اس سے ہے
"هُوَ يُرَشِّحُ لَوْلَايَةِ الْعَهْدِ" وہ ولی عہدی کیلئے
تیار کیا جا رہا ہے۔ الظَّمِيَّةُ وَلَدَهَا: جننے
کے وقت آلائش چاہنا۔ النَّاقَةُ وَلَدَهَا:
بمعنی رَشَحَتْهُ الغَيْثُ النَّبَاتُ: بارش کا
نبات کو بڑھانا۔

تَرَشَّحَ: وَلَدَ النَّاقَةَ: ہاں کے ساتھ چلنے کے
لائق ہونا۔ الظَّمِيَّةُ: جننے کے وقت آلائش
چاہنا۔ المَاءُ: پتھروں سے نچکانا۔

الرَّجُلُ لِأَمْرِ: لائق ہونا۔ اہل ہونا۔
اسْتَرَشَّحَ: النَّبَاتُ: بلند ہونا۔ بڑھنا۔
النَّبَاتُ: چرانے کیلئے بڑھنے کا انتظار کرنا۔
الرَّشْحُ: بے بند۔

الرَّوْاحِ: فَا: پتھروں سے نچکنے والا پانی۔
مِنَ الْفَضْلَانِ: چلنے میں قوی۔ پیاز جس
کا ٹھلا حصہ تر ہو۔ زمین پر رینکنے والا کھڑا۔ ج
رَوَّاشِحٌ۔

الرَّوْشِحُ: بے بند۔ ایک قسم کی نباتات۔
الْمُرَشِّحُ وَالْمُرَشِّحَةُ: زین کے نیچے کا
خوگیر۔

الأَرَشِحُ: بہت زمین۔ ذکی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
أَرَشِحٌ فَوَادًا" وہ تیز خاطر ہے۔

رَشَدٌ (ن) رُشْدًا وَرَشَادًا وَرَشِدٌ (س)
رَشَدًا: ہدایت پانا۔ راہ راست پر چلنا۔
أَمْرًا: ہدایت یا تیز ہونا۔

رَشَدَةٌ وَأَرَشَدَةٌ: إِلَى كَذَا وَعَلَيْهِ وَلَهُ:
ہدایت کرنا۔ رَشَدَةُ الْقَاضِي: سیدھے راستہ پر
چلنا۔

اسْتَرَشَدَ: لِأَمْرِهِ: راہ راست پانا۔
رَشَدٌ: ہدایت طلب کرنا۔

الرُّشْدُ: بے ہدایت۔ راہ راست پر ہونا۔
الرُّشْدَةُ وَالرُّشْدَةُ: حلال زادہ۔

الرُّشْدِيُّ: ہدایت۔
الرُّشِيدُ: سیدھے راستہ پر چلنے والا۔ ہدایت
یافتہ۔ ہدایت کرنے والا۔

الرُّشَادُ وَالرُّشْدُ: ایک قسم کی نباتات۔
الرُّشَادَةُ: چٹان۔ مٹی بھر کا پتھر۔ ج رَشَادُ۔

الرُّشَادُ: سیدھے و متوسط راستے (جمع ہے
واحد نہیں)

أَمْرٌ (رَشِيدٌ) چوبیا۔
رَشْرَشٌ وَرَشْرَشَةٌ: الشَّيْءُ: ڈھیلا ہونا۔

الرُّشْدِيُّ: اونٹ کا اچھی طرح بیٹھنے کیلئے سیدھے
سے زمین رگڑنا۔

تَرَشَّرَشَ: المَاءُ: بہنا۔ خُبْرٌ أَوْ عَظْمٌ
(رَشْرَشٌ وَرَشْرَشٌ) نرم روٹی یا ہڈی۔

رَشَفٌ (ض ن) رَشْفًا وَرَشْفًا وَرَشْفًا
وَرَشْفًا (س) رَشْفًا وَرَشْفَانًا المَاءُ وَنَحْوَهُ:
چوسنا۔ الإِنَاءُ: پی کر خالی کرنا۔

رَشَفٌ وَأَرَشَفٌ وَتَرَشَّفٌ وَأَرَشَفٌ
المَاءُ: خوب چوسنا۔

الرَّشْفُ وَالرَّشْفُ: حوض کا تیز تھوڑا پانی۔ کہا
جاتا ہے "حَوْضٌ رَشْفٌ" بے پانی کا حوض۔

الرَّشَافُ: بہت چوسنے والا۔
المُرَشِّفُ: پانی چوسنے کا آلہ۔ ج مَرَشِيفٌ
المَرَشِيفُ: ہونٹ۔

رَشَقَهُ (ن) رَشَقًا: بالسَّهْمِ: تیر مارنا۔
بِتَصْرِهِ: گھور کے دیکھنا۔ وہ بیلناہیہ: طعن و
تفتیش کرنا اور اسی سے ہے "إِيَّاكَ وَرَشَقَاتِ
اللِّسَانِ" زبان کی طعن زنی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

رَشَقٌ (ك) رَشَاقَةٌ: الغُلَامُ: خوبصورت قد
والا ہونا۔ چابک دست ہونا۔ پھر بیٹلا ہونا۔ صفت
(رَشِيقٌ) ج رَشَقٌ۔

رَشَاقَةٌ مَرَشَاقَةٌ: ہمراہ چلنا۔ ایک دوسرے کو تیر

مارنا۔

تَرَشَّقَ: القَوْمُ: باہم تیر اندازی کرنا اور کہا
جاتا ہے "تَرَشَّقُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَتَرَشَّقُوا
بِأَعْيُنِهِمْ" انہوں نے اپنی زبانوں سے طعن و
تفتیش کی اور اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر دیکھا۔
تَرَشَّقَ فِي الْأَمْرِ: تیز ہونا۔

أَرَشَقَ: النَّظَرَ إِلَيْهِ: تیز نظر سے دیکھنا۔
القَوْمُ بِتَصْرِهِ: نگاہ ڈالنا۔ الظَّمِيَّةُ: ہرنی کا
گردن پھیلا کر تیز نظر سے دیکھنا۔

الرَّامِي: سیدھا تیر پھینکانا۔ کہا جاتا ہے "أَرَشَقَنِي
مَقْصِدِي": اس نے میرے مقصد کی طرف
چلنے میں میرا مقابلہ کیا و "مَا أَرَشَقَ هَذِهِ
الْقَوْسُ" یہ کمان کس قدر تیز تیر پھینکنے والی ہے۔

الرَّشَقُ: تیز تیر پھینکنے والی کمان۔ رَشِيقِي
کی جمع۔

الرَّشَقُ وَالرَّشَقُ: قلم کی چرچر اہٹ۔ تم کہتے
ہو "سَمِعْتُ رَشَقَ قَلَمِهِ" میں نے اس کے قلم
کے چلنے کی آواز سنی۔ تیر اندازی ج
أَرَشَاقٌ۔

الأَرَشَقُ: سیدھا کھڑا۔ کہا جاتا ہے "جِنْدٌ
أَرَشَقٌ" کمزری گردن۔

الرَّشِيقُ: نازک اندام خوبصورت۔
مِنَ اللَّفْظِ وَالْخَطِّ: پاکیزہ نہیں لفظ یا خط۔

الرَّشِكُ: گھنی داڑھی۔ گھنی داڑھی والا۔
بچھو۔

رَشِمَ (ن) رَشْمًا: يَبْدُرُ الحِنَطَةَ: گیوں
کے کھلیان پر ٹھہر کرنا۔ (وَرَشْمٌ) لکھنا۔

رَشِمَ (س) رَشْمًا: کھانے کی بو سو گھنا اور
خوابش کرنا۔ صفت (أَرَشِمٌ)

أَرَشِمَ: الشَّجَرُ: درخت کا پتے والا ہونا۔
الأَرَشِمُ: بہزی لگنا شروع ہونا۔ البُرْقُ:
بجلی چمکانا۔ المَاشِيَةُ: ابتدائی بہزی چرنا۔ ()
وَأَرَشِمَ: الإِنَاءُ: برتن پر ٹھہر کرنا۔

الرَّشِمُ: ابتدائی بہزی۔ بجو کی منہ کی سیاہی ()
وَالرَّشِمُ: زمین پر بارش کا اثر۔ پھر چرنا کا
اثر۔

الأَرَشِمُ: داغدار۔ کتا (جو کتہ اس کے تختوں
کے درمیان سیاہی ہوتی ہے)۔ مِنَ الغَيْثِ

الزاصد۔ فاء مہمان۔ شیر گھات میں بیٹھے
والاج زصد و زصد۔
الزصد۔ راست۔ توڑی بارش۔ توڑی
گھاس۔ ج از صاد۔ گھات میں بیٹھے والے لوگ
(واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لئے اور کبھی جمع
کیلئے ارصاد بولتے ہیں)
الزصدۃ۔ بوجھار ج و صاد۔
الزصدۃ۔ تلوار کے پر تلہ کا حلقہ۔ شیر وغیرہ
کے شکار کا گڑھا۔
الزصدو۔ پانی پینے کے لئے انتظار کرنے والی
اونٹنی۔
الزصد۔ گھات میں رہنے والا۔
الجزصاد۔ راست () (والمزصد)
گھات۔ ج مزاصد و مزاصد۔ مزاصد
الحیات: سانپوں کے چھپنے کی جگہیں۔ از ص
(مزصدۃ) توڑی سی گھاس والی زمین۔
زصد۔ البناء: عمارت مضبوط بنانا
_____ فی المکان: ٹھہرنا۔ رہنا۔
الزصدۃ۔ سخت زمین۔ جاری چشمہ کے
ارد گرد کے پتھر۔
زصدۃ (ف) زصدۃ۔ بیدہ۔ تھپڑا
بالرمح: سخت نیزہ مارنا۔ زصدۃ البستان فی
المطعون: زور سے بھلامار کر گھاسنا
_____ الحب: دانہ کو دو پتھروں کے درمیان
کوٹنا (زصدۃ) اقامت کرنا۔
زصدۃ (س) زصدۃ۔ بالشی: چپکنا
_____ بالطیب: سبک اٹھنا۔ المرأة زصدۃ:
بجرا کرنا۔
زصدۃ۔ الشی: اندازہ کرنا اور بنانا۔ کہا جاتا ہے
"زصدۃ الظالمین عذۃ بالفضیلان" پر بندے نے
اپنے گھونٹے کو اندازہ کر کے تیلیوں سے بنا۔
الذہب بالجواهر: سونے میں جواہر بٹھانا۔ کہا
جاتا ہے "تاج مزیع بالجواهر" جواہر کا جڑا
ہوا تاج _____ العقدۃ بالجواهر: ہار میں
جواہر پرونا۔
ازصدۃ بالرمح: سخت نیزہ مارنا۔
ازصدۃ۔ الحب: دانہ کو دو پتھروں کے
درمیان کوٹنا _____ یہ: چپکنا۔ امانتہ:

سے چٹانا۔ جوڑنا _____ الذجاجة: بیٹھنا:
مرغی کا انڈوں کو بیٹھے کیلئے چھوڑنے سے درست کرنا۔
زصدۃ۔ ایک کو دوسرے سے چٹانا۔ جوڑنا۔
مضبوط کرنا۔ سیدہ کی قلعی کرنا _____ الزجل:
سوال کرنے میں اصرار کرنا۔
تصدص و اقتص۔ باہم چٹنا۔ جڑنا۔
الزصاص۔ سیدہ۔ قلعی۔ واحد (زصاصہ)
الزصاصی۔ سیدہ کے رنگ کا۔
الزصاص۔ دانوں کی بیوٹھی۔
الزصینص۔ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا۔
مؤنث زصدۃ۔ ج زصدانص۔ کہا جاتا ہے
"زصدت علی القبر الزصدانص" قبر پر پتھر بتہ
لگائے گئے۔ الزصینص: انڈوں کا ڈھیر۔ عورت
کے منہ کا نقاب۔
الازص۔ قریب قریب دانوں والا۔ مؤنث
زصدۃ۔ ج زصد۔ فخذ زصدۃ: ایک دوسرے
سے ملی ہوئی ران۔
الازصدۃ۔ خربڑ کی مانند لمبی ٹوپی۔
الزصدۃ۔ بخیل۔ جاری چشمہ کے ارد گرد کے
پتھر۔ بنیان (مزصدۃ) مضبوط عمارت۔
الزصد۔ انکشت شادت اور بیچ والی انگلی کی
جڑ کا فاصلہ۔
زصد (س) زصدۃ۔ قریب قریب سرین
صفت (ازصد) مؤنث زصدۃ۔
زصدۃ۔ فی الامر: بمعنی زصدۃ۔
زصدۃ (ن) زصدۃ و زصدۃ۔ انتظار کرنا۔
گھات میں بیٹھنا۔
زصدۃ۔ المکان: بوجھار پڑنا۔ صفت
(مزصد)
زصدۃ۔ تکبالی کرنا۔
ازصدۃ۔ الزویت: گھات میں واسطہ پر کھڑا کرنا
_____ لہ شیفنا: تیار کرنا۔ میا کرنا _____ لہ خیرا
او شوا: بدلہ دینا _____ الحساب: پیش کرنا۔
ظاہر کرنا۔ شمار کرنا۔
ازصدۃ و تصدۃ۔ امید لگانا۔ تصدۃ:
گھات میں بیٹھنا۔
تواصدۃ۔ الزجلان: ایک دوسرے کے گھات
میں بیٹھنا۔

توڑی بارش۔ عام ازصدۃ۔ سال کہ جس میں
ارزانی و فراخی اچھی طرح نہ ہو۔
الزصدۃ و الزصدۃ۔ غلہ کے انبار پر مہر کرنے
کی متقوش تختی۔
الزصدۃ۔ بچو کے منہ کی سیاہی۔
زصدن (ن) زصدنا و زصدونا۔ بن بلائے مہمان
بننا _____ الکذب فی الإناء: کتے کا برتن میں
سزانا۔
الزصدن و الزصدن۔ بالی لٹکے کا بدن۔
الزصدن۔ فاء۔ بن بلائے مہمان۔ کاریگر کے
شاگرد کا وظیفہ جس کو عوام کے نزدیک
"الخلوان" بھی کہا جاتا ہے۔
الزصدن۔ روشن دان۔ ج زصدان۔
زصدۃ (ن) زصدوا۔ رشوت دینا۔
زصدۃ۔ رشوت دینا۔ مدد کرنا۔
ازصدۃ۔ الذلوق: ڈول میں رشی لگانا
_____ السخیر: درخت کا لمبی ٹہنیوں کا ہونا
_____ القوم فی دمہ: کسی کے خون میں شریک ہونا
_____ ازصدۃ ابسلا جہم فیہ: کسی کے مقابلہ
کے لئے اپنے ہتھیاروں کو درست کرنا۔
تصدۃ۔ الزجل: باہم زری برتنا۔
ازصدۃ۔ رشوت لینا _____ منہ رشوتۃ:
رشوت لینا۔
استصدۃ۔ فی حکمہ: رشوت مانگنا
_____ الفصیل: اونٹ کے بچہ کا دودھ پینے کی
خواہش کرنا _____ ما فی الضرع: دھن سے
دودھ نکالنا۔
الزصدۃ و الزصدۃ و الرشوتۃ۔ رشوت۔ ج
زصدۃ و زصدۃ۔
الرشاء۔ رشی۔ ڈول کی رشی۔ ج ازصدۃ کہا
جاتا ہے "اتبع الذلوق رشاء ہا" ڈول کے پیچے
رشی بھی کرو۔ اس موقع پر مثال کے طور پر
بولتے ہیں جب ایک کو دوسرے کے ساتھ کرنا
ہو۔ وارشۃ النسات: نباتات کی بیلیں۔
الرشاءۃ۔ ایک قسم کی نباتات۔ ج۔ زصدۃ۔
الزصدۃ۔ اونٹ کا بچہ۔
الزصدۃ۔ ڈول کی رشی۔
زصد (ن) زصدۃ۔ الشی: ایک کو دوسرے

إِزْتَصَّ الشَّيْءُ: تَوَضَّأَ.
 الْأَرْضُ: جَمْعُ رَيْبِضٍ وَاللَّامُ.
 الرِّبِضُ وَالْمَرْبُوضُ: كَوْنُهُمَا.
 الرِّبِضُ: رَيْبُ جُورٍ.
 الرِّبِضَةُ وَالْمَرْبُوضَةُ وَالرِّبْضُ: تَحْطِئُ كَالرِّبِضِ
 دَوْدِهِ فِي بَحْلُوئِي هَوِيَّ كَجُورِي. الرِّبِضَةُ:
 كَوْنُهُ يَأْتِي كَالرِّبِضِ.
 رَضَبٌ (ن) رَضَبًا وَرَضَبٌ: الْمَطَرُ: زُورٌ
 سَ بَارَشَ هَوِيَّ السَّمَاءِ: آسَمَانٌ كَارِسَانَا
 (رَضَبٌ وَتَرَضَبٌ) الرِّبِضُ: تَهْوِكُ جُورًا.
 الرِّبِضُ: قَا- مِنَ الْمَطَرِ: زُورٌ سَ بَرَسَ
 دَالِي بَارَشَ.
 الرِّبِضُ: جُورًا هَوِيَّ تَهْوِكُ: شَدَّ كَالْعَابِ أَوْ
 جَهَاكُ: مَلَكٌ كَ رَيْبِ- بَرَفٌ أَوْ شَكْرٌ وَغَيْرُهُ
 كَ كَلَرٍ- أَوْلَى- مَاءٌ وَرَضَابٌ: يَشْهَبَانِي.
 الرِّبِضُ وَالْمَرْبُوضُ: خَوْشٌ مَزْهٍ
 تَهْوِكُ.
 رَضَحَ (ف) رَضَحًا: التَّوَيُّ أَوْ الحِطْيُ:
 تَحْطِئُ يَأْكُلُ كَرِي تَوَزْنَا _____ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ:
 كَلَنَا.
 تَرَضَّحَ: الحِطْيُ: كَلَرِي كَالرِّبِضِ- الخَيْزُرُ:
 رَوِيَّ كَأُورَا كَرْنَا.
 تَرَضَّحُوا: بِالرِّبِضِ: أَيْكٌ دُورَسَ بِرَتِيرٍ
 ائْدَارِي كَرْنَا.
 إِزْتَصَّحَ مِنَ الْأَمْرِ: عَذَرَ كَرْنَا.
 الرِّضْحُ: تَهْوِزٌ عَطِيهٌ- كَمَا جَاتَا بِهٖ "بَلْعَانَا"
 رَضَّحَ مِنَ الخَيْرِ: "هَمُّ كُو تَهْوِزِي خَيْرِي"
 الرِّضْحُ: تَحْطِئُ.
 الرِّضْحُ: تَوِيَّ هَوِيَّ تَحْطِئُ.
 الرِّضْحَةُ: تَحْطِئُ جُو تَوَزْتِ وَتَقْتِ بِتَحْرَ كَ نِيحِ
 سَ جَهْلَكُ جَائِ- كَمَا جَاتَا بِهٖ "وَقَعَتْ رَضْحَةُ"
 مِنَ الْمَطَرِ: "لَيْعِي تَهْوِزِي سِي بَارَشَ هَوِيَّ- ج
 رِضَّحَ.
 الرِّبِضُ: تَحْطِئُ كَالرِّبِضِ:
 رَضَّحَ (ض ف) رَضَّحًا: التَّوَيُّ أَوْ
 الحِطْيُ: تَحْطِئُ يَأْكُلُ كَرِي تَوَزْنَا أَوْ كَمَا جَاتَا بِهٖ
 "رَضَّحَ لَهُ مِنْ مَالِهِ رَضَّحًا" لَيْعِي اسَ نَ اسَ
 كُو بَسْتِ فِي سَ تَهْوِزَا سَادِي _____ الخَيْزُرُ:

رُضِفَ.
 الرُّضِيفُ: نَظِيرٌ- دَوَسْتُ- عَمَلٌ رُضِيفٌ:
 مَضْبُوطٌ كَامٌ أَوْ مَوْلِدِيْنَ كَ نَزْدِيكٌ رُضِيفٌ كَا
 اِطْلَاقِ تَحْرِيْ كَ فَرَشَ كِيَّ هَوِيَّ رَاسْتِ بِرِ هَوِيَّ
 هَ-
 الرُّضِيفَةُ: بِجَاهِ جُورِي فِي تَمْرِ كَ بِحَلِّ كَ دَاخِلِ
 هَوِيَّ كِي جَلْدِ سَ أَوْ بِرِ لَگِيَا جَاتَا هَ- اِطْرَافِ شَمْرِ كَا
 سَبْزِ زَارِ أَوْ عَمُوْأَسَ كَا اِطْلَاقِ بَعْدَ اِدْ كَ أَيْكٌ مَقَامِ
 بِرِ هَوِيَّ هَ-
 الرُّضِيفَةُ: ثَابِتٌ قَدِي-
 الرُّضِيفَةُ: تَهْوِزَا.
 الرُّضِيفُ: تَمْرٌ رَجُلٌ مُرْتَضِيفٌ الْأَسْتَانُ:
 قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ دَانُوْئِ وَالْأَمْرُ-
 إِزْتَصَّقَ إِزْتَصَاقًا: جِيكٌ كَرْمَضْبُوطٌ هَوِيَّ-
 رَضِمَ (س) رَضِمًا: بِمَارِي كِي تَلَكُ كَهَائِي فِي
 دَاخِلِ هَوِيَّ-
 رَضَمَ (ن) رَضَمًا: الْأَمْرُ: بِوَرَا كَرْنَا مَضْبُوطٌ كَرْنَا
 _____ الدَّابَّةُ: دَاغٌ لَگَانَا _____ هِيلَسَانِيَهٗ: كَالِي
 رِيْنَا-
 رَضَنَ (ك) رَضَنًا: الْعَقْلُ وَغَيْرُهُ: سَجِيْدُهُ
 هَوِيَّ- مَضْبُوطٌ هَوِيَّ- ثَابِتٌ قَدَمٌ هَوِيَّ- صِفَتُ
 (رَضِيْنٌ)
 رَضَنَ: الشَّيْءُ مَعْرِفَةٌ: خَوْبٌ أَجْمَلِي طَرَحَ سَجْمَانَا
 أَوْ كَمَا جَاتَا بِهٖ "رَضَنَ لِي هَذَا الخَيْرِ" مِيرِ
 لَئِي اسَ خَبْرِي تَحْقِيْقُ كَرُو-
 أَرَضَنَهُ: مَضْبُوطٌ كَرْنَا- كَمَلُ كَرْنَا-
 الرَضَنُ: أَيْكٌ حَسْمُ كِي نَابَاتُ-
 الرَضِيْنُ: اِطْرَافِ سَاتَمِي كِي ضَرُوْرَتِ كِيْلِي اِصْوَارِ
 كَرْنَا دَاوَالَا- دُرْمَنُ- دُرْدَاكُ-
 الرَضِيْنُ: جَانُوْرُوْ كُو دَاغٌ لَگَانَا كَالوْبَا-
 رَضَا (ن) رَضَوًا: الشَّيْءُ: مَضْبُوطٌ كَرْنَا- اِصْوَارِ
 كَرْنَا-
 أَرْضِي- بِالْمَكَانِ: جَمْعُ كَرْنَا-
 رَضَا (ن) رَضَا: كَوْنًا- دَلْنَا-
 رَضَّضَ: الشَّيْءُ: أَجْمَلِي طَرَحَ كَوْنًا- دَلْنَا-
 تَرَضَّضَ: كَوْنًا جَاتَا- دَلْنَا-
 أَرْضٌ: سَتٌ وَبُجْمَلٌ هَوِيَّ- تَمْرٌ دُرْدَا _____
 فِي الْأَرْضِ: جَانَا- التَّغَبُّ: التَّوَيُّ: بِهَيْبَتِ بَرَانَا-
 دَانُوْئِ كَا بِوَسْتِ قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ هَوِيَّ-
 تَوَضَّعَ: جَزَاؤٌ هَوِيَّ- شَارِدَانٌ هَوِيَّ- كَامٌ وَغَيْرُوْ فِي
 جَسْتِ هَوِيَّ-
 تَوَضَّعَتِ: الْعَضَافِيْزُ: جَفِيَتْ كَرْنَا-
 الرِّضِيْعَةُ: كَوْنُهُ هَوِيَّ دَانِي- لَگَامُ كِي كَرِهَ-
 تَوَارٌ يَأْتِي وَغَيْرُهُ كَا حَلْقَةُ يَأْكُلُ زِيُوْر- ج
 رِضَّاعِي-
 الْأَرْضُ: لَاغَرَسِيْنَ وَاللَّ- طَلْعُ: أَرْضُغٌ: بِوَرَا
 كَهْمَا هَوِيَّ-
 الرِّضَّاعُ: بِسْتِ جَمَاعُ كَرْنَا-
 الرِّضَّاعُ: لُو- هِرُوْهٌ كَلَرِي- جَمْعُ سَ كِي جِيُوْرُ
 جُوْرَا كَرِي-
 الرِّضَّاعُ: بِدَوَسْتِ- كَلْنَا-
 الرِّضَّاعُ: بِمَعْنَى الرِّضَّاعِ.
 رَضَّعَ (ن) رَضَّعًا: الْحِجَارَةُ: تَحْرِيْ كُو
 تَرْتِيْبِ سَ جُوْرْنَا _____ الْمَضِيْ قَدَمِيْهِ أَوْ
 نِيْحِيْ قَدَمِيْهِ: نَمَازِي قَادِمُوْ كُو قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ كَرْنَا
 يَأْتِي كُو دُوْرَسَ سَ مَلَانَا أَوْ كَمَا جَاتَا بِهٖ "هَذَا
 الْأَمْرُ لَا يَرُضَّفُ بَلْ" يَ كَامُ تَمَارَسَ لَ اِتَّقِ
 نِيْحِي-
 رَضَّفَ (ك) رَضَّفًا: الْعَمَلُ: مَضْبُوطٌ هَوِيَّ-
 رَضَّفَتِ (س) رَضَّفًا وَرَضَّفَتِ رَضَّفًا
 ائْسْتَانُهُ: دَانُوْئِ كَا تَرْتِيْبِ دَاوُوْ هَوِيَّ-
 أَرْضَفَ: شَرَابٌ وَغَيْرُهُ فِي بِمَارِي كِي جَشْمَ كَا بِانِي
 مَلَانَا-
 تَرَضَّفَتِ وَتَرَضَّفَتِ وَرَضَّفَتِ
 الْحِجَارَةُ: تَحْرِيْ كَا تَرْتِيْبِ دَاوُوْ مَلَانَا-
 _____ الْقَوْمُ فِي الصَّفِّ: تَرْتِيْبِ سَ أَيْكٌ
 دُوْرَسَ سَ لَ كَر كَلَرَا هَوِيَّ ائْسْتَانُهُ:
 دَانُوْئِ كَا تَرْتِيْبِ دَاوُوْ هَوِيَّ-
 الرِّضْفُ: بِانِي بِنِي كِي جَلْدِ فِي أَيْكٌ دُوْرَسَ
 كَ سَاتَمِ جَزَاؤُ هَوِيَّ- تَحْرُ- وَاحِدٌ (رَضْفَةٌ)
 الرِّضْفَتَانِ: كَهْمُوْئِي كِي بِمَارِي كِي سَبِي- كَهْمُوْ-
 الرِّضْفُ: بِانِي كَا بِنْد- مَاءٌ الرِّضْفُ: بِمَارِي كَا
 صَافِي بِانِي جُوْجَانِ بِرِ كَرْنَا-
 الرِّضَافُ: بِجَاهِ جُوْجَانِي تَمْرِ كَ بِحَلِّ كَ
 دَاخِلِ هَوِيَّ كِي جَلْدِ سَ أَوْ بِرِ لَگِيَا جَاتَا هَ-
 كَهْمُوْئِي كَا بِجَاهِ- بِمَارِي كِي بِمَارِي- ج رَضْفُ وَ

رُضِفَ.
 الرُّضِيفُ: نَظِيرٌ- دَوَسْتُ- عَمَلٌ رُضِيفٌ:
 مَضْبُوطٌ كَامٌ أَوْ مَوْلِدِيْنَ كَ نَزْدِيكٌ رُضِيفٌ كَا
 اِطْلَاقِ تَحْرِيْ كَ فَرَشَ كِيَّ هَوِيَّ رَاسْتِ بِرِ هَوِيَّ
 هَ-
 الرُّضِيفَةُ: بِجَاهِ جُورِي فِي تَمْرِ كَ بِحَلِّ كَ دَاخِلِ
 هَوِيَّ كِي جَلْدِ سَ أَوْ بِرِ لَگِيَا جَاتَا هَ- اِطْرَافِ شَمْرِ كَا
 سَبْزِ زَارِ أَوْ عَمُوْأَسَ كَا اِطْلَاقِ بَعْدَ اِدْ كَ أَيْكٌ مَقَامِ
 بِرِ هَوِيَّ هَ-
 الرُّضِيفَةُ: ثَابِتٌ قَدِي-
 الرُّضِيفَةُ: تَهْوِزَا.
 الرُّضِيفُ: تَمْرٌ رَجُلٌ مُرْتَضِيفٌ الْأَسْتَانُ:
 قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ دَانُوْئِ وَالْأَمْرُ-
 إِزْتَصَّقَ إِزْتَصَاقًا: جِيكٌ كَرْمَضْبُوطٌ هَوِيَّ-
 رَضِمَ (س) رَضِمًا: بِمَارِي كِي تَلَكُ كَهَائِي فِي
 دَاخِلِ هَوِيَّ-
 رَضَمَ (ن) رَضَمًا: الْأَمْرُ: بِوَرَا كَرْنَا مَضْبُوطٌ كَرْنَا
 _____ الدَّابَّةُ: دَاغٌ لَگَانَا _____ هِيلَسَانِيَهٗ: كَالِي
 رِيْنَا-
 رَضَنَ (ك) رَضَنًا: الْعَقْلُ وَغَيْرُهُ: سَجِيْدُهُ
 هَوِيَّ- مَضْبُوطٌ هَوِيَّ- ثَابِتٌ قَدَمٌ هَوِيَّ- صِفَتُ
 (رَضِيْنٌ)
 رَضَنَ: الشَّيْءُ مَعْرِفَةٌ: خَوْبٌ أَجْمَلِي طَرَحَ سَجْمَانَا
 أَوْ كَمَا جَاتَا بِهٖ "رَضَنَ لِي هَذَا الخَيْرِ" مِيرِ
 لَئِي اسَ خَبْرِي تَحْقِيْقُ كَرُو-
 أَرَضَنَهُ: مَضْبُوطٌ كَرْنَا- كَمَلُ كَرْنَا-
 الرَضَنُ: أَيْكٌ حَسْمُ كِي نَابَاتُ-
 الرَضِيْنُ: اِطْرَافِ سَاتَمِي كِي ضَرُوْرَتِ كِيْلِي اِصْوَارِ
 كَرْنَا دَاوَالَا- دُرْمَنُ- دُرْدَاكُ-
 الرَضِيْنُ: جَانُوْرُوْ كُو دَاغٌ لَگَانَا كَالوْبَا-
 رَضَا (ن) رَضَوًا: الشَّيْءُ: مَضْبُوطٌ كَرْنَا- اِصْوَارِ
 كَرْنَا-
 أَرْضِي- بِالْمَكَانِ: جَمْعُ كَرْنَا-
 رَضَا (ن) رَضَا: كَوْنًا- دَلْنَا-
 رَضَّضَ: الشَّيْءُ: أَجْمَلِي طَرَحَ كَوْنًا- دَلْنَا-
 تَرَضَّضَ: كَوْنًا جَاتَا- دَلْنَا-
 أَرْضٌ: سَتٌ وَبُجْمَلٌ هَوِيَّ- تَمْرٌ دُرْدَا _____
 فِي الْأَرْضِ: جَانَا- التَّغَبُّ: التَّوَيُّ: بِهَيْبَتِ بَرَانَا-
 دَانُوْئِ كَا بِوَسْتِ قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ هَوِيَّ-
 تَوَضَّعَ: جَزَاؤٌ هَوِيَّ- شَارِدَانٌ هَوِيَّ- كَامٌ وَغَيْرُوْ فِي
 جَسْتِ هَوِيَّ-
 تَوَضَّعَتِ: الْعَضَافِيْزُ: جَفِيَتْ كَرْنَا-
 الرِّضِيْعَةُ: كَوْنُهُ هَوِيَّ دَانِي- لَگَامُ كِي كَرِهَ-
 تَوَارٌ يَأْتِي وَغَيْرُهُ كَا حَلْقَةُ يَأْكُلُ زِيُوْر- ج
 رِضَّاعِي-
 الْأَرْضُ: لَاغَرَسِيْنَ وَاللَّ- طَلْعُ: أَرْضُغٌ: بِوَرَا
 كَهْمَا هَوِيَّ-
 الرِّضَّاعُ: بِسْتِ جَمَاعُ كَرْنَا-
 الرِّضَّاعُ: لُو- هِرُوْهٌ كَلَرِي- جَمْعُ سَ كِي جِيُوْرُ
 جُوْرْنَا كَرِي-
 الرِّضَّاعُ: بِدَوَسْتِ- كَلْنَا-
 الرِّضَّاعُ: بِمَعْنَى الرِّضَّاعِ.
 رَضَّعَ (ن) رَضَّعًا: الْحِجَارَةُ: تَحْرِيْ كُو
 تَرْتِيْبِ سَ جُوْرْنَا _____ الْمَضِيْ قَدَمِيْهِ أَوْ
 نِيْحِيْ قَدَمِيْهِ: نَمَازِي قَادِمُوْ كُو قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ كَرْنَا
 يَأْتِي كُو دُوْرَسَ سَ مَلَانَا أَوْ كَمَا جَاتَا بِهٖ "هَذَا
 الْأَمْرُ لَا يَرُضَّفُ بَلْ" يَ كَامُ تَمَارَسَ لَ اِتَّقِ
 نِيْحِي-
 رَضَّفَ (ك) رَضَّفًا: الْعَمَلُ: مَضْبُوطٌ هَوِيَّ-
 رَضَّفَتِ (س) رَضَّفًا وَرَضَّفَتِ رَضَّفًا
 ائْسْتَانُهُ: دَانُوْئِ كَا تَرْتِيْبِ دَاوُوْ هَوِيَّ-
 أَرْضَفَ: شَرَابٌ وَغَيْرُهُ فِي بِمَارِي كِي جَشْمَ كَا بِانِي
 مَلَانَا-
 تَرَضَّفَتِ وَتَرَضَّفَتِ وَرَضَّفَتِ
 الْحِجَارَةُ: تَحْرِيْ كَا تَرْتِيْبِ دَاوُوْ مَلَانَا-
 _____ الْقَوْمُ فِي الصَّفِّ: تَرْتِيْبِ سَ أَيْكٌ
 دُوْرَسَ سَ لَ كَر كَلَرَا هَوِيَّ ائْسْتَانُهُ:
 دَانُوْئِ كَا تَرْتِيْبِ دَاوُوْ هَوِيَّ-
 الرِّضْفُ: بِانِي بِنِي كِي جَلْدِ فِي أَيْكٌ دُوْرَسَ
 كَ سَاتَمِ جَزَاؤُ هَوِيَّ- تَحْرُ- وَاحِدٌ (رَضْفَةٌ)
 الرِّضْفَتَانِ: كَهْمُوْئِي كِي بِمَارِي كِي سَبِي- كَهْمُوْ-
 الرِّضْفُ: بِانِي كَا بِنْد- مَاءٌ الرِّضْفُ: بِمَارِي كَا
 صَافِي بِانِي جُوْجَانِ بِرِ كَرْنَا-
 الرِّضَافُ: بِجَاهِ جُوْجَانِي تَمْرِ كَ بِحَلِّ كَ
 دَاخِلِ هَوِيَّ كِي جَلْدِ سَ أَوْ بِرِ لَگِيَا جَاتَا هَ-
 كَهْمُوْئِي كَا بِجَاهِ- بِمَارِي كِي بِمَارِي- ج رَضْفُ وَ

گوشت۔

الرَضِيفَةُ وَالْمَرْضُوفَةُ۔ اوجھ جس کی دھو کر سفر میں اسے ساتھ رکھتے تھے اور جب ہانڈی نہیں ہوتی تھی تو گوشت کے ٹکڑے کا ٹکڑا اسی اوجھ میں بھر دیتے تھے اور پھر پتھر گرم کر کے اس کو بھی اسی اوجھ میں ڈال دیتے تھے تاکہ اس کی گرمی سے گوشت پک جائے۔

الرَضِيفَةُ۔ داغ کرنے کا آلہ۔

مُظْلِفَةُ (الرَضِيفُ) ایسی سخت مصیبت جو پھیل مصیبتوں کو بھلا دے۔ چربی جو پھیل کر پتھر کی گرمی بھلا دے۔ بہت زہریلا سانپ جس کے زہر سے پتھر کی گرمی کم ہو جائے جبکہ وہ اس پر سے گزرے۔

أَرْضَاكَ عَيْنِيهِ: آنکھوں کو بند کرنا اور کھولنا۔

رَضَمَ (ض) رَضْمًا۔ الأَرْضُ: زمین کو جو تباہی

التَّبِيْثُ: گھر کو بڑے بڑے پتھروں سے

بنانا۔ صفت مفعول (الرَضِيمُ وَمَرْضُومٌ)

المِيتَاعُ: سامان کو بدست رکھنا۔ الشَّيْءُ: توڑنا۔

عَلَيْهِ الصَّخْرُ: ڈالنا () رَضْمًا

وَرَضْمَانًا، فِي الْمَشْيِ: سُت چلنا۔ قریب

قَرِيبٌ قَدَمٌ رَكْحٌ كَرُوْرْنَا _____ بِالْمَكَانِ:

اقامت کرنا۔

إِرْتَضَمَ المِتَاعُ: سامان بدست ہونا۔

الرَضِيمُ وَالْمَرْضُومُ: بڑے بڑے پتھر

جو عمارت میں اوپر تلے رکھے جائیں۔ رَضَمَ کا

واحد (رَضْمَةٌ)

الرَضَامُ: ایک قسم کی گھاس۔ ہر چیز کا قلیل

حصہ۔

رَضَاهُ يَرْضُوهُ رَضْوًا: پسندیدگی میں غالب

ہونا۔ کہا جاتا ہے "رَضَائِي فَرَضُوهُ" اس نے

مجھ سے پسندیدگی میں مقابلہ کیا اور میں غالب رہا۔

رَضِي (س) رَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضْوَانًا وَ

رَضْوَانًا وَرَضَاةً۔ عَنهُ وَعَلَيْهِ: خوش ہونا۔

راضی ہونا۔ صفت (راضٍ) رَضُوْنَ وَرَضَاةً

وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ

رَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ

رَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ

رَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ

رَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ

رَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ وَرَضِيٌّ

مَرَضِيٌّ

إِسْتَرْضَعَ۔ دَائِي پلائی طلب کرنا یا دودھ پلانے کو

کہنا۔ کہا جاتا ہے "إِسْتَرْضَعْتُ الْمَرْأَةَ وَلَدِي"

عورت سے میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کو کہا۔

الرَضْعُ۔ کینٹی۔ کجور کے چھوٹے چھوٹے

پودے۔ واحد (رَضْعَةٌ)

الرَضِيعُ۔ فا۔ دودھ والی۔ کینڈ۔ بخیل۔ لوگوں

سے سوال کرنے والا۔

الرَضِيعَةُ۔ راضع کا مؤنث۔ الرَضِيعَتَانِ بچہ

کے اگلے دو واہت۔ جَزْوَانِجُ۔

الرَضِيعُ۔ جَزْوَانِجُ۔ الرَضِيعُ جَزْوَانِجُ۔

دودھ پیتا بچہ۔ کینڈ۔ رَضِيعُكُ: تمہارا رضاعی

بھائی اور وہ تمہارا رضاعی بھائی ہوگا اس لئے

مراضع کے معنی میں ہے۔

الرَضَاعَةُ۔ م۔ بچھوئی اور دکھنی ہواؤں کے

درمیان کی ہوا۔ () وَرَضَاعَةُ (إِرْضَاعُ كَا

اِسْم۔

الرَضُوْعَةُ۔ اپنے بچے کو دودھ پلانے والی

عورت۔

الرَضَاعُ۔ بہت دودھ پلانے والی۔ کینڈ۔

المَرَضِيعُ۔ کینٹی۔

رَضَفَهُ (ض) رَضْفًا۔ داغ لگانا۔ رَضَفَ

اللَّبَنُ: دودھ کو گرم پتھر پر گرم کرنا _____

اللَّحْمُ: گوشت کو گرم پتھر پر بھوتنا۔

رَضَفَهُ: سخت غصہ بنا کر دینا۔

الرَضِيفُ۔ گرم پتھر۔ واحد (رَضِيفَةٌ) کہا جاتا ہے

"هُوَ عَلَيَّ الرَضِيفُ" یعنی وہ رنجیدہ ہے۔

الرَضِيفُ: ملی ہوئی انگلیوں کی مانند گھٹنے کی پڑیاں

اور امثال میں سے ہے "تُحَدِّثُ مِنَ الرَضِيفَةِ مَا

عَلَيْهَا" یعنی بخیل آدمی سے جو کچھ تمہارا سالے

دینے لے۔

الرَضِيفَةُ۔ گرم پتھر۔ گرم پتھر سے کیا ہوا داغ۔ ج

رَضَفَ وَرَضَفَاتُ۔

الرَضِيفُ۔ گرم پتھر _____ وَالرَضِيفَةُ: گرم

پتھر ڈال کر گرم کیا ہوا دودھ اور اسی سے ہے

"مَرَضِيَّتُ الرَضِيفَةُ" میں نے گرم پتھر ڈال کر گرم

کیا ہوا دودھ پیا۔

الرَضِيفُ وَالْمَرْضُوفُ۔ گرم پتھر بھنا ہوا

باہم سینک مارنا اور عوام کہتے ہیں "رَضَعَ لَهْ" یعنی اس نے اس کے لئے فروتنی کی و "رَضَعَ لِلْحَقِي" اس نے حق کا یقین کیا۔

رَضَعَهُ۔ ایک دوسرے کو پتھر مارنا _____

الشَّيْءُ: بادل ناخوار ستہ دینا _____ مِنْهُ شَيْئًا:

پانا۔ حاصل کرنا۔

أَرْضَعَ لِلرَّجُلِ: بہت میں سے تمہارا دینا۔

تَوَاضَعَ القَوْمُ بِالْحِجَابَةِ: باہم پتھر ڈال کرنا۔

تَوَضَّعَ الحَصِيُّ: کنگری کا ٹوٹنا۔ الخَبْرُ: توڑ

کر کھانا _____ الخَبْرُ: سن کر یقین نہ کرنا۔

الرَضِيعُ۔ م۔ تمہارا عطیہ۔ سنی ہوئی غیر یقینی

خبر۔

الرَضِيعُ: توڑی ہوئی گھٹلی۔

الرَضِيفَةُ وَالرَضَاعَةُ: تمہارا عطیہ۔

الرَضِيفَةُ وَالرَضَاعَةُ: تمہارا عطیہ۔

جس سے یا جس پر توڑا جائے۔

رَضَدَ (ن) رَضْدًا۔ المِتَاعُ: سامان کو ترتیب

سے رکھنا۔

إِرْتَضَدَ المِتَاعُ: سامان ترتیب سے رکھنا۔

رَضُوْرَضَةً: توڑنا۔ چورہ کرنا۔

تَوَضَّعَ الحَصِيُّ: پتھر کا ٹوٹنا۔

الرَضُوْرَضُ: چھوئی اور باریک کنگریاں۔ بہت

گوشت والا مرد۔ مؤنث رَضُوْرَضَةٌ۔

رَضِعَ (س) وَرَضِعَ (ف) رَضْعًا

وَرَضَعًا وَرَضِعًا وَرَضَاعًا وَرَضَاعًا

وَرَضَاعَةً وَرَضَاعَةً وَرَضِعَتْ: الْوَالِدَةُ أُمَّةً:

ماں کا دودھ پیتا۔ صفت (رَضِعَ) جَزْوَانِجُ۔

رَضِعَ (ك) رَضَاعَةً: لیم ہونا۔ کینڈ ہونا۔

صفت (رَضِعَ) جَزْوَانِجُ۔

رَضَعَهُ رَضَاعًا وَرَضَاعَةً: رضاعی بھائی

کے ساتھ دودھ پینا _____ ابنتہ: دائی پلائی کو دینا

القَلْفُ: بچے کا اپنی حاملہ ماں کا دودھ پینا۔

أَرْضَعَهُ۔ دودھ پلانا۔ أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ:

دودھ پیتے بچے والی ہونا۔ صفت (مَرَضِعُ) (اس

کلمہ میں تاعلات تاہت لاحت نہیں ہوتی اس

وجہ سے یہ کہ بلکہ اثاث ہی کیلئے مخصوص ہے

اور جب بچہ پستان کو سڈ میں لے لے تو اس وقت

صفت (مَرَضِعَةُ) ہوگی۔ جَزْوَانِجُ وَرَضِعَاتُ وَ

جاتا ہے "رَضِيَ اللَّهُ عَنْ فُلَانٍ وَرَضِيَ عَنْهُ" یعنی اللہ اس کے اعمال کو قبول کرے اور اس سے خوش رہے۔ "رَضِيَتْ مَعِيْشَةُ" اس کی زندگی پسندیدہ ہے۔

رَضِيَ رَضَاءً وَمَرْضَاةً. الرَّجُلُ: رضامندی طلب کرنا۔ پسندیدگی میں مقابلہ کرنا۔ اَرْضَى وَرَضَى. الرَّجُلُ: رضامند کرنا۔ خوش کرنے کے لائق رہنا۔

تَرْضَى الرَّجُلُ: رضامندی طلب کرنا۔ تَرْضَى الْقَوْمَ الشَّيْءَ: قوم میں سے ہر ایک کا کسی چیز کو پسند کرنا۔

إِرْتِضَاءً لِيُجِدْمَتِيَّهَ أَوْ لِيُصْحِبِيَّهَ: پسند کرنا۔ اِسْتَرْضَاةً: رضامندی طلب کرنا۔ و اِسْتَرْضَيْتِيْهَ: کسی سے یہ کہنا کہ مجھے رضامند کرو۔

رَجُلٌ وَإِمْرَأَةٌ (رضی) پسندیدہ مرد یا عورت (چونکہ یہ مصدر بمعنی مفعول ہے اس لئے مفرد تشبیہ جمع نہ کر مونت سب کیلئے ہی ہے) عَيْشَةٌ (رَضِيَتْ) پسندیدہ و اچھی زندگی (اس میں استاد مجازی ہے)

رَضَوَى: مدینہ طیبہ اور یثرب کے درمیان ایک پہاڑ کا نام اور نسبت کے لئے رَضَوَى.

الرِّضَاءُ: خوشنودی۔ الرِّضْوَةُ: خوشنودی۔ کہا جاتا ہے "مَفَاعَلْتُ ذَلِكَ إِلَّا عَنِ رَضْوَتِيْهَ" میں نے اس کو اس کی رضامندی سے کیا۔

الرِّضَى: عاشق۔ دولا۔ چھریرا۔ اِرْطَأَ اِرْطَاظًا: بیوقوف ہونا۔ چلا۔ شور مچانا۔ فِی مَقْعَدِيْهَ: جم کے بیٹھنا۔

اِسْتَرْضَاةً: بیوقوف سمجھنا۔ الرِّطِيْبُ: شور۔ جج۔ بیوقوفی۔ بیوقوف۔ ج رَطَاظًا:

الرِّطَاظِيْبُ: بیوقوف (جمع ہی ہے اس کے لئے واحد نہیں)

رَطَاظًا (ف) رَطَاظًا الْقَوْمَ: قوم کو ناپسندیدہ امر میں پھنسا دینا۔ بِسَلْبِحَةٍ: پاخانہ کرنا۔ المِرْمَاةُ: جماع کرنا۔

اِسْتَرْضَاةً الرَّجُلُ: بیوقوف ہونا۔

الرَّجُلُ: بیوقوف سمجھنا۔ الرِّطَاظِيْبُ: بیوقوفی۔

الرِّطِيْبِي: بیوقوف۔ ج رِطَاءٌ مَوْنٌ رِطْفَةٌ وَ رِطَاءٌ:

رِطَبٌ (ن) رِطَابَةٌ البَشَرُ پختہ ہونا۔ بسر کھجور کا رطب ہونا۔

رِطَبٌ (ن) رِطْبًا وَرِطْفًا: الذَّابَّةُ: جانور کو تازہ چارہ کھلانا۔

رِطَبٌ (س) وَرِطَبٌ (ك) رِطْبَةٌ وَرِطَابَةٌ: تر ہونا۔ نمناک ہونا۔ نازک ہونا۔ رِطَبٌ البَشَرُ: پختہ ہونا۔

رِطَبٌ وَرِطْبٌ: القُوْبُ وَنُحُوْرُهُ: تر کرنا۔

رِطَبٌ وَرِطْبٌ وَرِطْبٌ البَشَرُ: پختہ ہونا۔ رِطْبٌ القَوْمُ: پختہ کھجور کھلانا۔ وَرِطْبٌ الأَرْضُ: زمین کا پختہ کھجور والی ہونا۔ اِرْطَأَ الرَّجُلُ: کھجوروں کے پینے کا وقت آنا۔ اِرْطَأَ القَوْمُ: پختہ کھجوروں کے درخت خرما کا مالک ہونا۔

رِطْبٌ: تر ہونا اور اسی سے ہے "رِطْبٌ لِسَانِيْ بِلَذِيْكَ" تمہاری یاد سے میری زبان تر ہے۔

الرِّطْبُ وَالرِّطْبِيْبُ: تر۔ نرم و نازک شئی یا پر وغیرہ۔ کہا جاتا ہے "عَيْشٌ رِطْبِيْبٌ" خوش حال زندگی۔

الرِّطْبُ وَالرِّطْبِيْبُ: بزرگوار۔ الرِّطْبُ: پختہ تازہ کھجور۔ واحد (رِطْبَةٌ) ج رِطَابٌ وَرِطَابٌ:

الرِّطْبَةُ: کھاری کنوئیں کے درمیان بیٹھا کنواں۔ الرِّطَابُ: برون نظام۔ عورتوں کے لئے ایک گال۔

الرِّطْبُ: کمزور بال وغیرہ۔ الرِّطَابَاتُ: خرافات۔ رِطْبٌ (ن) رِطْبًا: تھپڑ مارنا۔ اِرْطَأْتُ عَلَيْهِ الحِجَابَةَ: پھروں کا پتہ پتہ ہونا۔

رِطْبٌ (ف) رِطْبًا: الجَارِيَةُ: جماع کرنا۔ الرِّطْبُ: زکام۔ رِطْبٌ (ن) رِطْبًا: الشَّيْءُ: ہاتھ میں اٹھا کر وزن

معلوم کرنا۔ الرَّجُلُ: دوڑنا۔ رِطْبٌ: الشَّيْءُ: تیل لگا کر نرم کرنا اور کھنٹی کرنا۔ الشَّيْءُ: رِطْبٌ: پختہ سے وزن کرنا۔ وَرِطْبٌ: الرَّجُلُ: ڈھیلے لگے ہوئے کانوں والا ہونا۔

رِطْبٌ: رِطْبٌ: رِطْبٌ سے بچنا۔

الرِّطْبُ وَالرِّطْبُ: بارہ اوقیہ کا ایک وزن۔ ۳۰ تولد۔ ج اِرْطَالٌ: الرِّطْبُ مِنَ الرَّجَالِ: بیوقوف۔ سست۔ کمزور بڑھا۔ لاغر اندام۔ قریب البلوغ لڑکا۔ سب رفتار کھوڑا۔

الرِّطْبَةُ: سب رفتار کھوڑی۔ الرِّطْبَاءُ: ریتا کی تھیف ہے۔ الرِّطْبُ مِنَ الرَّجَالِ: نرم۔ لمبا۔

رِطْبَةٌ (ن) اِرْطَالًا: کچھڑ میں گرنا۔ پیچیدہ اور مشکل کام میں پھنسا۔

رِطْبٌ وَرِطْبٌ: فِی قَعْوَدِيْهَ: جم کے بیٹھنا۔ وَرِطْبٌ الرَّجُلُ: خاموش رہنا۔ رِطْبٌ البَحِيْرُ: اونٹ کو قبض کی بیماری ہونا۔

رِطْبٌ: السِّلْحُ: پاخانہ روکنا۔ اِرْطَبٌ: کچھڑیں گرنا یا پیچیدہ اور مشکل کام میں پھنسا۔

فِی الأَمْرِ: کسی معاملہ میں پھنسا جانا۔ عَلَيْهِ الأَمْرُ: مشتبہ ہونا۔ الشَّيْءُ: ڈھیر لگانا۔

الرِّطْبَةُ: پیچیدہ اور مشکل کام جس سے خلاصی دشوار ہو۔ الرِّطَابُ: قبض۔

الرِّطَابُ: کسی چیز کو چھڑے رہنے والا۔ اِمْرَأَةٌ مَرْطُوْمَةٌ: بدی کے ساتھ متم عورت۔ رِطْبٌ لَدُنَّ (ن) رِطَابَةٌ وَرِطَابَةٌ وَرِطَابَةٌ مَرْطُوْمَةٌ: عجمی زبان میں گفتگو کرنا۔

رِطَابٌ: القَوْمُ وَرِطَابٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ: باہم عجمی زبان میں گفتگو کرنا۔ الرِّطْبِيُّ: کلام جو سمجھ میں نہ آئے۔ کہا جاتا ہے "مَاءٌ رِطْبِيْبٌ كَهَذَا" تمہاری یہ کیا بکواس ہے۔

رِطَابٌ (ن) اِرْطَاظًا: الجَارِيَةُ: جماع کرنا۔ رِطْبٌ (ن) رِطْبًا: الرِّيحُ: ہوا کا ٹھہر جانا۔

الرَّعَاعُ: کہنے و زبیل لوگ۔
الرَّعَاعَةُ: شتر مرغ۔ بے عقل اور بغیر دل کا آدمی۔

رَعَبٌ (ف) رَعْبًا و رَعْبًا: خوف کرنا۔
الرَّجُلُ: خوف دلانا (رَعْبًا) الإِنَاءُ او الحَوْضُ: برتن یا حوض کا بھرنا۔ السِّنَامُ و نَحْوُهُ: کوہان وغیرہ کے لیے لیے کلوے کاٹنا۔
رَعَبَتِ الحِصَامَةَ: کبوتر وغیرہ کا شتر مرغوں کو۔
رَعَبٌ تَرَعِبًا و تَرَعِبًا: خوف دلانا۔
الإِنَاءُ: برتن بھرنا۔
السِّنَامُ: کوہان کے لیے لیے کلوے کاٹنا۔
فَلَانًا: کسی کیلئے تیر میں پیکان کو بٹھانا۔
إِرْتَعَبَ: ڈرنا۔

الرَّعْبُ: جادو کا منتر۔ متقی شتر برا وعدہ۔
الرَّعْبُ و الرَّعْبُ: گھبراہٹ۔ تیر میں پیکان لگانے کی جگہ۔ ج رعبہ۔
الرَّعْبُ: خوفزدہ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ رَعِبٌ العَيْنُ و مَرَعِبٌ العَيْنُ" بزدل جو ہر چیز کو دیکھ کر خائف ہو جائے۔ مونا جس سے چربی نیچے۔
الرَّعَابُ: جادو کرنے والا۔ متقی شتر بولے والا۔
الرَّعَابَةُ: لوگوں کو بہت ڈرانے والا۔

الرَّعْبُوبُ: بزدل۔ ج رَعَابِيبُ (اندام لڑکی۔
الرَّعْبُوبَةُ و الرَّعِيبَةُ: من العجور ای: نازک اندام لڑکی۔
الرَّعْبُوبُ: مونا جس سے چربی نیچے۔
الرَّعْبُوبَةُ: کوہان کا کلو۔ ج تو رعب۔
الرَّعْبُوبَةُ: ڈرانے والی مچھل کو کہ کوئی شخص تمہاری غفلت کی حالت میں کود کر تمہارے پاس بیٹھ جائے اور تم ڈر جاؤ۔
الرَّعْبُوبُ: اللُّحْمُ: گوشت کے پارچے پارچے ہوتا۔

الرَّعْبُوبُ: کپڑے کا کلوے کلوے کرنا۔
الرَّجُلُ: بیوقوف ست عورت سے نکاح کرنا۔
الرَّعْبُوبُ: اللُّحْمُ: گوشت کا پارچے پارچے ہوتا۔
الرَّعْبُوبُ: کپڑے کا کلوے کلوے ہوتا۔
الرَّعْبُوبُ: مِنَ النِّسَاءِ: بیوقوف عورت

پرانے کپڑے پہننے والی عورت۔ جَمَلٌ رَعْبٌ: موٹا ونٹ۔

الرَّعْبَةُ و الرَّعْبُوبَةُ: پراٹا و بوسیدہ کپڑا۔ ج رَعَابِلٌ و رَعَابِلٌ: اور کہا جاتا ہے "قَوْبٌ رَعَابِلٌ" یعنی پراٹا کپڑا۔
الرَّعْبَةُ و الرَّعْبُوبَةُ: مِنَ الرِّيحِ: ایک رخ پر نہ چلنے والی ہوا۔
الرَّعْبُوبَةُ: پٹنا ہوا۔ جھپٹا۔ گوشت کا کلو۔
رَعَفْتُ (ف) رَعْفًا و رَعَفْتُ (س) رَعْفًا: العَفْرُ: کانوں کے سفید کناروں والی ہوا۔
رَعَفْتُ وَاِرْتَعَفْتُ: المَرَاةُ: عورت کا بالی پستان۔ آویزہ پستان۔

الرَّعْفُ و الرَّعْفُ: رکتیں اون جس کو ہوج کے اوپر لٹکتے ہیں۔ رَعْفُ الرِّمَانِ: انار کی کلی۔
الرَّعْفَةُ و الرَّعْفَةُ: بالی۔ مرغ کی کفنی مرغ کی داڑھی۔ ج رَعْفًا و ج رَعْفًا۔
الرَّعْفَاءُ: بگڑی جس کے کانوں کے کنارے کٹے ہوئے لک رہے ہوں، لیے دانہ والا انور۔
الرَّعْفُوبَةُ: پتھر جس پر کھڑے ہو کر پانی کھینچیں یا وہ پتھر جس کو کتوں کھودتے وقت کتوں میں ڈال دیں تاکہ آئندہ اسی پر بیٹھ کر کتوں کو صاف کریں۔

رَعِبَةٌ (ف) رَعِبًا و رَعِبًا و رَعِبَةٌ: غنی کرنا۔ قَلْبٌ مِّنْ دَانٍ: رَعِبٌ التَّوْبُ: بجلی کا لگاتار چمکتا آواز۔ ج رَعِبٌ الرَّجُلُ: بہت مال موٹی والا ہونا۔
رَعِبٌ (س) رَعِبًا المَالُ او العَدْوُ: بہت ہونا۔
الرَّوَادِي: وادی کا بھر جانا۔ اِرْتَعِبَ الرَّجُلُ: کانپنا۔
کہا جاتا ہے حَزْرَجُوا و لَهُمْ اِرْتَعَابٌ: لوگ نکلے اس حال میں کہ ان کے لئے اضطراب تھا۔ التَّوْبُ: بجلی کا لگاتار چمکتا۔ الوادی۔ بھر جانا۔ المَالُ: بہت ہونا۔

الرَّعِجُ: بہت موٹی۔
رَعَدًا (ف) رَعْدًا و رَعْدًا: السَّحَابُ: بادل کا گڑگڑانا۔ گرجنا۔ کہا جاتا ہے "وَرَعْدٌ لِي فَلَانٌ و بَرَقٌ" یعنی مجھ کو فلاں نے دھمکی دی و "رَعَدَتِ المَرْأَةُ و بَرَقَتْ" یعنی وہ عورت بناؤ سنگھار کے سامنے آئی۔
أَرَعَدَ الرَّجُلُ: کسی شخص پر گڑگڑاہٹ ہونا

گڑگڑاہٹ سنا۔ زَيْدًا: دھمکی دینا۔
الرَّعْبُوبُ: جتائے اضطراب کرنا۔ کپکپا دینا۔ لڑنا۔

أَرَعَدَ: کپکپی ہونا۔
تَرَعَدَ: حرکت کرنا۔ کانپنا۔
إِرْتَعَدَ: اضطراب کرنا۔ کانپنا۔
الرَّعْدَةُ: وہ۔ بادل کی گرج۔ کہا جاتا ہے "جاءَ بِذَاتِ الرَّعْدِ و الرِّيحِ الصَّالِبِ" یعنی وہ لڑائی لایا۔
الرَّعْدَةُ و الرَّعْدَةُ: کپکپی۔
الرَّعْدَةُ: بہت بولنے والا۔ بہت گرجنے والا۔
بول۔ ایک قسم کی مچھل جس کے چھوٹے سے کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور اس کو "سَمَكَةُ الرَّعْدِ" بھی کہتے ہیں۔

الرَّعْدَةُ: بہت بولنے والا۔
الرَّعْدَةُ: گرجنے والا بادل۔ صَلَفٌ تَحْتَ الرَّعْدَةِ: اس شخص کے لئے بطور مثال کے کہتے ہیں جو بہت بک بک کرے اور ڈبک مارے اور اس سے کچھ خیر حاصل نہ ہو۔ ج رَوَاعِدُ ذَاتِ الرَّوَاعِدِ: مصیبت۔
الرَّعْدَةُ: گیسوں کا پھوڑن۔
رَعْدَدَ: سوال کرنے میں اصرار کرنا۔
تَرَعَّدَ: کپکپی ہونا۔

الرَّعْدِيدُ و الرَّعْدِيدَةُ: بزدل۔ بہت کانپنے والا۔ تَبَاتَ رَعْدِيدٌ: نرم و نازک نباتات۔ ج۔
رَعَادِيْدٌ۔
رَعْوَعُ: المَاءُ: پانی کا سطح زمین پر لہریں مارنا۔
الرَّعْوَسُ: گھوڑے پر سدھانے کے لئے سوار ہونا۔
الرَّعْوَسُ: بچہ کا بڑھنا جو ان ہوتا۔

الرَّعْوَسُ او الرَّعْوَسُ: پانی یا سراب کا متلاطم ہونا۔ السَّمْرُ: دانت کا بلنا۔
الرَّعْوَعُ و الرَّعْوَعُ: و الرَّعْوَعُ: اچھے قدر اور اچھی جوانی والا۔ ج رَعَارِعٌ و رَعَارِعٌ۔
الرَّعْوَعُ: بزدل۔ لسان کل۔
رَعْوَةٌ (ف) رَعْوًا: الجَارِيَةُ: جماع کرنا۔
رَاعَوْهُمَا رَعْوَةً: سکرنا۔
الرَّعْوَعُ و الرَّعْوَعُ: الجَارِيَةُ: جماع کرنا۔
لئے بالوں کے نیچے کے چھوٹے چھوٹے روئیں۔

<p>گھوڑا۔ رَعَقَ (ف) رَعَقًا وَرَعِيقًا. بَطَلْنَ الذَّابِقَةُ: جانور کے پیٹ سے دوڑنے میں آواز نکلتا۔ رَعَلَ (ف) رَعَلًا الشَّيْءُ: کشادہ۔ پھاڑنا۔ فَلَانًا: سخت نیرہ مارنا۔</p>	<p>جلد ہانا۔ پیکان کی جگہ توڑنا۔ رَعَطَ عَنْ كَذَا: ست کر دینا۔ جلدی کرانا الْوَتْدُ: اکھڑنے کے لئے ہلانا۔ أَرَعَطَ السَّهْمَ: پیکان لگانے کی جگہ ہانا۔ فَلَانًا: ست کر دینا۔</p>	<p>لَوْبٌ (مُسْتَرَعَفٌ) چھوٹے چھوٹے روس سے بنا ہوا کپڑا۔ مُرَاعِزٌ: غضبناک۔ رَعَسَ (ف) رَعَسًا: کانپنا۔ تھکن وغیرہ سے آہستہ چلنا (رَعَسَا وَرَعَسَانًا) زاسا: بڑھاپے کی وجہ سے ہلانا۔ أَرَعَسَهُ: کپکپا دینا۔ لرزانا۔ تَرَعَسَ وَارْتَعَسَ: کانپنا۔ نَاقَةٌ (رَاعِسَةٌ) اونٹنی جو نشاط میں ہو۔ الرَّعُوسُ: خوشی یا نیند کی وجہ سے سر ہلانے والا۔</p>
<p>رَعِلَ (س) رَعَلًا: بیوقوف ہونا۔ التَّبَابُ: لہی اور لٹکتی ہوئی شانوں والی ہونا۔ صفت (أَزْعَلُ) رَعَلُ الْكَنْوَمِ: انگور کی کونپلیں چھوٹنا۔ أَرَعَلَهُ: سخت نیرہ مارنا۔ إِسْتَرَعَلَتْ: الغنمُ: بکریوں کا آگے پیچھے تظار میں چلنا۔ إِسْتَرَعَلَ الرَّجُلُ: جنگ میں آگے آگے چلنا۔</p>	<p>الرُّعْظُ: تیر میں پیکان لگانے کی جگہ۔ جِ أَرَعَاظُ: کہا جاتا ہے "كُنَسَ عَلَيْهِ أَرَعَاظُ التَّبَابِ" یعنی وہ اس پر بت غضبناک ہوا اس لئے کہ شدت غضب میں آدمی تیر کو زمین میں گھساتا ہے یہاں تک کہ پیکان ٹوٹ جاتا ہے۔ رَعَفَ (ف) رَعَفًا: الفَرَسُ الخَيْلُ: آگے بڑھ جانا۔ رَعَفَ (س) رَعَفًا: الدَّمُ: نکسیر پھوٹنا۔ (رَعَفَ وَرَعَفَ (ف) رَعَفًا وَرَعَفًا) الرَّجُلُ: نکسیر والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "رَعَفَ بِهِ التَّبَابُ" یعنی وہ اچانک داخل ہوا۔</p>	<p>الرَّعِيسُ: چلنے میں لڑکھڑانے والا۔ الرَّعَاسُ: نرم نیرہ جس میں لچک ہو۔ المِرْعَسُ: خمیس آدمی جو کوزے کرکٹ میں سے دانوں کو پختے۔ رَعَشَ (س) رَعَشًا وَارْتَعَشَ: کانپنا۔ صفت (رَعَشَ وَرَعَشَ) الرَّعِيشُ: کانپنا۔ أَرَعَشَهُ وَرَعَشَهُ: کپکپا دینا۔ لرزانا۔ عاجز کرنا۔</p>
<p>الأَزْعَلُ: بیوقوف۔ مَوْتٌ رَعَلًا: جِ رَعُلٌ لہی اور لٹکتی ہوئی شاخ والی نباتات۔ حَضَبٌ أَرَعَلُ: گوشت کو کاٹ کر لگا دینے والی تلوار کی ضرب۔ الرَّعِلُ: پہاڑ کی نقلی ہوئی نوک۔ رَعُلٌ الرَّجُلُ: کپڑے۔ الرَّعِلُ: شدت کی نرمی۔ الرَّعَالُ: رینٹ۔ تاک کی رطوبت۔ الرَّعَالَةُ: بیوقوفی۔</p>	<p>أَرَعَفَهُ: جلدی کرانا _____ الْقِرْبَةَ: منگ کولبا لب بھرنا _____ الْقَلَمُ: قلم میں زیادہ روشنائی لگانا۔ إِرْتَعَفَ وَإِسْتَرَعَفَ: آگے بڑھنا۔ وَإِسْتَرَعَفَتِ الْحَصَى رَجُلَهُ: نکسیریوں کا پیر کو خون آلود کر دینا۔ الرَّعْفُ: نیرہ مارنے کی پھرتی۔ الرَّعَافُ: نکسیر۔ بت بارش۔ الرَّعَافُ: بت نکسیر والا۔ بت آگے بڑھنے والا۔ الرَّعَافِيُّ: بت دینے والا۔ (رَعَافٌ) بمعنی کثیر بارش سے ماخوذ ہے۔</p>	<p>الرَّعِشُ وَالرَّعِيشُ: بزدل۔ جلد باز۔ الرَّعِشَةُ: جلد بازی۔ الرَّعَاشُ: مرض کی وجہ سے کچلی۔ نَاقَةٌ (رَعُوشٌ) بڑھاپے کی وجہ سے سر ہلانے والی اونٹنی۔ الرَّعِشَاءُ: مِنَ النِّعَامِ: تیز رفتار شتر مرغ۔ _____ مِنَ النَّوْقِ: تیز رفتاری کی وجہ سے چھوٹے والی اونٹنی۔ الرَّعُوشُ وَالرَّعُوشُ: ایک قسم کا سفید کبوتر جو فضائے آسمانی میں چکر لگاتا ہے۔ الرَّعِشَنُ: کانپنے والا۔ بزدل۔ جلدی کرنے والا۔</p>
<p>الرَّعْلَةُ: شتر مرغ۔ بکری یا اونٹنی کے کان کے پچھلے حصے کو کاٹ کر لٹکایا ہوا ٹکڑا۔ عِمَالٌ: تھوڑے گھوڑوں کا یا گائیوں کا گلد۔ جِ رَعَالٌ وَرَعَالٌ: کانپنا۔ کہا جاتا ہے "أَقْبَلْتُ الرَّعِيلُ رَعَالًا وَارْتَعِيلُ" أَرَاعِيلُ الرِّيحِ أَوْ السَّحَابِ: ابتدائی ہوا آئیں یا بادل۔ الرَّعْلَةُ: انگور وغیرہ کو کھیل۔ جِ رَعُلٌ: ریمان و آس وغیرہ کا پانا ہوا تاج۔ أَبْوَرَعْلَةٌ: بھیڑیا۔ الرَّعِيلُ: آگے آگے رہنے والی جماعت (گھوڑوں یا آدمیوں یا پرندوں کی) جِ رَعَالٌ: المِرْعَالُ: شمشیر ہراں۔ المِرْعَالُ: عمدہ مال۔ المُسْتَرَعِلُ: گلہ سے نکلا ہوا جانور۔ گلہ بان۔ اوشٹ والا۔ رَعِمَ (ن) رَعِمًا الشَّيْءُ: گنہگار ہونا۔</p>	<p>الرَّعُوفُ وَالرَّاعُوفُ وَالرَّاعُوفَةُ وَالأَرَعُوفَةُ مِنَ البِشْرِ: کنوئیں کا پتھر جس پر کھڑے ہو کر پانی نکلتی ہیں۔ الرَّعُوفُ: ہلکی بارش۔ الرَّعَاعِيفُ: تاک اور اس کا ارد گرد۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّه عَلَى الرَّعِيمِ مِنَ الرِّعَافِ" یعنی میں نے اس کو اس کے مزاج کے خلاف کیا۔ المُسْتَرَعِفُ: مِنَ الخَيْلِ: آگے رہنے والا</p>	<p>رَعَصَ (ف) رَعَصًا وَأَرَعَصَ: الشَّيْءُ: حرکت دینا۔ ہلانا۔ کھینچنا _____ عَلَيْهِ جَلْدُهُ: کھال کا پھڑکانا۔ تَرَعَصَ وَارْتَعَصَ: عَلَيْهِ جَلْدُهُ: کھال کا پھڑکانا۔ الجَدِيُّ: بکری کے پچھلے کا خوشی میں آکر اچھلنا۔ رَعَطَ (ف) رَعَطًا السَّهْمُ: پیکان لگانے کی</p>

الرَّغِيْبَةُ: رَغِيْبٌ كَامُوْنَةٌ - امر مرغوب۔
 بست صلیبہ - حج و غائب۔
 الرِّمَّاعِيْبُ: خَوَائِشٌ - وہ عورتیں جو معاش کے لیے مضرب ہوں۔
 الرِّغَابِيُّ: جگر کی زیادتی۔
 رَغَثٌ (ف) رَغَا: أَلُوْدًا مَّهً: ماں کا دودھ پینا۔ ہ: لگاتار نیزے مارنا۔ القَوْمُ فُلَانًا: سوال کر کے سارا مال ختم کر دیا۔
 رَغَثٌ: کسی سے بست سوال کیا جانا اور اس کی وجہ سے سارا مال ختم ہونا۔ پستان کی رگوں میں درد ہونا۔
 أَرْغَثَ: المَرْؤَةُ: والی پلائی ہونا۔
 وَلَدَهَا: دودھ پلانا۔ صفت (رَغُوْتُ وَرَغُوْتُهُ وَرَغُوْتٌ): أَرْغَثَهُ: پستان کی رگوں میں نیزہ مارنا۔ بار بار نیزہ مارنا۔
 إِرْغَثَ: الْوَلَدُ أُمَّه: بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔
 الرُّغْغَاءُ: پستان کی وہ رگیں جن سے دودھ نکلتا ہے۔
 المَرْغَثُ: انگلی میں انگوٹھی کی جگہ۔
 رَغَدٌ (س) رَغَدًا وَرَغْدٌ (ک) رَغَادَةٌ: عَيْشُهُ: آسودہ و خوش حال ہونا۔ عیش کی صفت (رَغْدُو وَرَغْدُو رَغِيْدًا)
 أَرْغَدَ: القَوْمُ: آسودہ زندگی والی ہونا۔
 مَوَاشِيَهُمْ: جانوروں کے چرنے کے لیے آزاد چھوڑنا۔ اللہ عَيْشُهُ: آسودہ۔ تانا۔
 إِرْغَادٌ: رائے میں متردد ہونا۔ اللَّيْنُ: دودھ کا کچھ کچھ گاڑھا ہونا۔
 اسْتَرْغَدَ: العَيْشُ: آسودہ زندگی پانا۔ قَوْمٌ (رَغْدٌ) وَنِسَاءٌ رَغْدٌ: آسودہ زندگی والی قوم۔
 اور ریز انڈکی جمع ہے جیسے خدام کی جمع خدام۔
 الرُّغِيْدَاءُ: گیسوں کا بچھوڑنا۔
 الرِّغِيْدَةُ: ایک قسم کا کھانا جو جوش ویسے ہوئے دودھ میں آٹا ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔
 المَرْغَدَةُ: باغ۔
 رَغْرَغٌ: آسودگی کی زندگی ہونا۔ آسودگی میں ڈوب جانا۔ رَغْرَعَتِ اِبْنُهُ: اونٹوں کا ہر روز جب جی چاہے گھاس پر آنا۔ الأَمْرُ: بچپانا۔

رَغَسَةٌ (ف) رَغَسًا وَأَرْغَسَةٌ: اللّٰهُ مَالًا وولداً بہت دینا۔
 اسْتَرْغَسَهُ: نرم سمھنا۔
 الرُّغْسُ: نعمت دیرکت۔ نموج از غاس۔
 المَرْغَسُ: مِنَ العَيْشِ: فراخ زندگی۔
 المَرْغُوسُ: مبارک۔
 المَرْغُوسَةُ: اطّز غوس کاموْنٹ۔ کثرت سے بچے جننے والی عورت۔
 رَغَسَ (ف) رَغَسًا عَلَيْهِ: شور مچانا۔
 رَغَفٌ (ف) رَغْفًا: العَجِيْبُ: گندھے ہوئے آنے کا بیڑہ بنانا۔ البَيْعِيُّ: اونٹ کے منہ میں کسی چیز کا ڈالنا۔
 أَرْغَفٌ: چلنے میں جلدی کرنا۔ اللّٰهُ: تیز نظر سے دیکھنا۔
 الرِّغِيْفُ: گندھے ہوئے آنے کا بیڑا۔ چپائی، روٹی، حج اَرْغِفَةٌ وَرُغْفٌ وَرُغْفٌ وَرُغْفَانٌ وَتَوَاطِيْفٌ۔
 وَجْهٌ (مَرْغِفٌ) خمت چہرہ۔
 رَغَلٌ (ف) رَغَلًا: الْوَلَدُ أُمَّه: بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔
 أَرْغَلَ: الرُّجْلُ: غلطی کرنا۔ گمراہ ہونا۔
 إِلَيْهِ: مائل ہونا۔ الرُّزْغُ: کھیتی کے خوشوں میں اچھا واند بیٹھنا۔ الشَّقِيُّ: بے موقع رکھنا۔
 الجَدِيْبِيُّ أُمَّه: بکری کے بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ المَكَانُ: رغل نامی گھاس اگانا۔
 المَاءُ: بہت گرا تا۔
 الرُّغْلُ: ایک قسم کی کڑوی گھاس۔ حج اَرْغَالُ۔
 الرُّغُولُ: اپنی ماں کا دودھ پینے والا بکری کا بچہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رَمٌ رَغُولٌ" وہ ہر چیز کو قیمت سمجھتا ہے اور چٹ کر جاتا ہے۔
 الأَرْغَلُ: مِنَ العَيْشِ: فراخ زندگی۔
 الرُّغْلَةُ: بکری۔ بھیر کا بچہ۔
 رَغَمَةٌ (ف) رَغَمًا: مغلوب و مجبور کرنا۔ رَغَمَ الشَّقِيُّ: ناپسند کرنا۔
 رَغِمٌ (س) وَرَغِمٌ (ن) رَغَمًا وَرَغَمًا: اَنْفَهُ: اللّٰهُ: ذلیل ہونا۔ فروتنی کرنا۔ صفت (رَاغِمٌ) الأَنْفُ: حج رَغَمٌ الأَنْفُ: و رَغَمه: ناپسند کرنا۔

رَغَمَةٌ: ذلیل کرنا اور دشمنی کرنا۔
 اَنْفَهُ: خاک آلود کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَغَمَ اللّٰهُ اَنْفَهُ": یعنی اللّٰہ اس کو ذلیل کرے۔
 فُلَانٌ اَنْفَهُ: فروتنی کرنا۔
 أَرْغَمَةٌ: ذلیل کرنا۔ ناراض کرنا۔ ناپسندیدہ کام پر آسانا۔ ه الذَّلُّ: خاک آلود کرنا۔ اَرْغَمَ اَهْلَهُ: اپنے اہل کو ناپسندیدگی سے چھوڑنا۔
 اللَّفَمَةُ مِنَ فَيْه: لقمہ کوند سے مٹی میں ڈالنا۔ اللّٰهُ اَنْفَهُ: ذلیل کرنا۔ اَرْغَمَتِ العَنْبَاءُ وَ الطَّبَّاءُ: بکری، بھیرا ہرن کی ناک سے پانی بہنا۔
 رَاغَمَةٌ: باہم غھیناک ہونا۔ ایک دوسرے کو چھوڑنا۔ و شمشی کرنا۔ غَمَسَهُ سے علیحدہ ہونا۔
 تَوَاطِيْفٌ: غھیناک ہونا۔ تَوَاطَمْتُ الرُّجُلُ: کسی کے مزاج کے خلاف کام کرنا۔
 الرُّغْمُ وَ الرُّغْمُ وَ الرُّغْمُ: ناپسندیدگی۔ مجبوری۔ زلت۔ مٹی۔ کہا جاتا ہے "اتقی علی رَغْمِهِ" وہ باجوہ اس کی ناپسندیدگی کے آیا۔
 الرَّاغِمُ: نا۔ رَاغِمٌ الأَنْفُ: ذلیل حج رَغْمُ الأَنْفُ۔
 الرُّغَامُ: مٹی یا مٹی ملی ہوئی ریت۔
 الرُّغَامُ: رینٹ۔ حج اَرْغَمَةٌ۔
 الرُّغَامَةُ: حاجت۔ مطلوب۔ کہا جاتا ہے "لین عِنْدَ فُلَانٍ رُّغَامَةً" مجھے فلاں کے پاس ضرورت ہے۔
 الرُّغْمَاءُ: مِنَ الشَّاءِ: ناک کے کنارے پر سفیدی والی یا جسم کے رنگ کے مخالف رنگ والی بکری۔
 المَرْغَمُ وَ المَرْغَمُ: حج مَرَاغِمٌ وَ (الرُّغَامِيُّ) ناک الرُّغَامِيُّ: جگر کی زیادتی۔ پھپھوڑوں کی رگیں۔
 المَرْوَاغِمُ: فقہ۔ بھانگے کی جگہ۔ جانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "إِذْ لِي عَنْ ذَاوِ الهَيَوَانِ مَرَاغِمٌ" میرے لیے زلت کے مکان سے بھانگے کی جگہ ہے۔ قلعہ۔
 المَرْغَمَةُ: ناپسندیدگی۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَيَّ مَرَاغِمَةً" میں نے اس کو باوجود اس کی ناپسندیدگی کی کیا۔

المزغَام۔ غضب میں ڈالنے والا۔ مؤنث
مِزْغَامَةٌ۔

رَعَنَ (ف) رَعْنًا فَبِهِ لَاجِلٌ كَرْنَا۔ إِلَيْهِ كَانَ لَكَانَ۔

أَرْعَنَهُ طبع ولانا۔ أَرْعَنَ الْأَمْرَ : آسان کرنا
إِلَيْهِ كَانَ لَكَانَ۔ أَرْعَنَ لِقَالَانَ : اطاعت و
فرمان برداری کرنا۔

الْأَرْعَنُ وَالْأَرْعُنُونَ۔ (آرگن) (ایک باجہ کا
نام)

رَعَا (ن) رِعَاةً الْجَبْرِ أَوْ التَّعَامُ وَالصَّبِيحُ :
بہلانا۔ جِنَانًا الصَّبِيحُ بہت رونا۔
الرَّعْدُ زور سے گرجنا۔

رَعَا (ن) رَعْوًا وَرَعَى تَرْعِيَةً وَأَرْعَى
إِرْعَاءَ اللَّيْنِ وَتَحْوَةً دودھ پر جھاگ آنا۔ کہا
جاتا ہے "أَرْعَى الرَّجُلَ وَأَرْبَدَ" مرد غضب کی

وجہ سے چیخا اور اس نے دھمکی دی۔ "وَأَتَيْتُهُ
فَمَا أَقْبَى وَلَا أَرْعَى" میں اس کے پاس آیا تو
اس نے نہ تو بکری دی نہ اونٹنی _____ ہ ذلیل
کرنا۔ مغلوب کرنا۔ وَرَعَى فَلَانًا : غضبناک کرنا۔

إِرْتَعَى اللَّيْنُ : دودھ سے جھاگ آنا لینا
الرَّعْوَةُ : جھاگ پینا۔

الرَّعْوَةُ وَالرَّعْوَةُ وَالرَّعْوَةُ جَزَعِيٌّ وَرَعِيٌّ
وَالرَّعَايَةُ وَالرَّعَايَةُ وَالرَّعَايَةُ وَالرَّعَايَةُ
وَالرَّعَايَةُ مِنَ اللَّيْنِ : دودھ کا جھاگ۔

الرَّاعِيَةُ۔ اونٹنی۔ کہتے ہیں "مَالَةٌ لِرَاعِيَةٍ وَلَا
رَاعِيَةٍ" نہ تو اس کے پاس بکری ہے نہ اونٹنی۔
المِزْغَامَةُ۔ کفگیر۔

المُرْعِيُّ مِنَ الْكَلَامِ : بہم گفتگو۔
رَفَّ (ن) رَفًّا بِسْتِ كَمَا هُوَ : ہ
خدمت کرنا۔ بہلائی و احسان کرنا۔ ہر قسم کی

خدمت کرنے میں کوشش کرنا _____ التامس
بہ : گھبر لینا _____ بہ : اکرام و تنظیم کرنا۔ کہا جاتا
ہے "ذَهَبَ مَنْ كَانَ رِخْفَهُ وَيَرَفُهُ" وہ شخص چلا
گیا جو اس پر نوازش و مہربانی کرتا تھا۔

الْبَيْتُ : گھر میں الگ بنانا _____ الی سدا :
خوش ہونا۔ رَفَّتْ عَيْنُهُ : پھر کرنا _____ التيزي :

بجلی کا چمکنا _____ شَفِيحَةٌ : ہونٹ کا چوسنا۔
اللَّيْنُ : ہر روز دودھ پینا _____ نُؤْيَةٌ :

دوسرا کپڑا لگا کر نیچے سے کشادہ کرنا۔
الذَّائِبَةُ : بھوسہ کھلانا۔

رَفَّ (ض) رَفًّا وَرَفِيًّا وَإِرْتَفَفَ۔ التَّبَاتُ :
لہلہانا۔ رَفَّتِ الْعَيْنُ : پھر کرنا۔

رَفَّ التَّيْرُفِيُّ : بجلی چمکنا۔ رَفَّ لَوْنُهُ : چمک اٹھنا۔
أَرْفَ إِزْفَافًا۔ الطَّائِرُ : پرندہ کا دونوں بازو
پھیلاتا۔

الرَّفِّ۔ سہ۔ الگنی۔ کٹڑی وغیرہ جس کے دونوں
کنارے دیوار میں لگا کر گھر کا سالان رکھ دیں۔
ریست کی باریک نوک۔ مویشی کا گلہ پر ندوں کی

ڈار۔ بکریوں کا بازو۔ سلام کپڑا ج زُفوف و رَفَافٍ۔
الرَّفِّ۔ اونٹوں کا گلہ۔ ہر دن کا پینا۔ کہا جاتا ہے
"أَخَذَتْهُ الْحُمَّى رَفًّا" اس کو روزانہ بخار آیا۔

الرَّفِّ وَالرَّفَّةُ۔ بھوسہ و بھوسہ کا چورہ۔
الرَّفَافُ۔ بھوسہ کا چورہ۔

الرَّفِيْفُ۔ سہ۔ چھت۔ فراخ سالی _____ فنی
رَفِيْفٌ الْأَخْلَاقُ : اچھے اخلاق والا جوان۔
الرَّفَافُ۔ اسم مبالہ۔ کہا جاتا ہے "نَعَزَّ رَفَافٌ"
سفید و شفاف دانت۔

رَفًّا (ف) رَفًّا۔ الرَّفُّوبُ : کپڑے کو رن کرنا۔
حمرت کرنا _____ ہ : خوف سے تسکین دینا۔ مدد
دینا _____ تَبْنُهُمْ : صلح کرنا _____ السَّفِيْفَةُ :
کشتی کو کنارہ پر لانا۔

رَفَّاهُ تَرْفِيَةً وَتَرْفِيَةً۔ مبارک باد دینا اور
"بِالرَّفَاءِ وَالرَّبِيْنِ" کہنا۔ (بالرَّفَاءِ وَالرَّبِيْنِ) :
شادی کرنے والے کیلئے دعا ہے کہ تم دونوں میں

اتفاق و اتحاد رہے اور تمہارے بیٹے پیدا ہوں۔
أَرْفَأَ إِلَيْهِ : قریب ہونا اور بنا دینا۔
السَّيُّ إِلَيْهِ : قریب کرنا _____ الرَّجُلُ : کھٹھی
کرنا۔

السَّفِيْفَةُ : کشتی کا کنارہ سے قریب ہونا۔
أَرْفَأَهُ وَرَفَّاهُ۔ مدارات کرنا۔ مدد کرنا۔
الرَّفَاءُ۔ اتفاق۔

الرَّفَاءُ۔ رن کرنا۔
الرَّفَاءُ وَالْمُرْفَأُ۔ مِنَ الْبَحْرِ : بندر گاہ۔ ج
مَرَأِيٌّ۔

رَفَّتْ (ن) رَفْنَا۔ السَّيُّ : توڑنا۔ کوشنا۔ چورہ
کرنا) _____ وَأَرْفَتْ وَتَرْفَتْ : ٹوٹنا۔ چورہ ہونا

الرَّفِّ۔ سہ۔ الگنی۔ کٹڑی وغیرہ جس کے دونوں
کنارے دیوار میں لگا کر گھر کا سالان رکھ دیں۔
ریست کی باریک نوک۔ مویشی کا گلہ پر ندوں کی

ڈار۔ بکریوں کا بازو۔ سلام کپڑا ج زُفوف و رَفَافٍ۔
الرَّفِّ۔ اونٹوں کا گلہ۔ ہر دن کا پینا۔ کہا جاتا ہے
"أَخَذَتْهُ الْحُمَّى رَفًّا" اس کو روزانہ بخار آیا۔

الرَّفِّ وَالرَّفَّةُ۔ بھوسہ و بھوسہ کا چورہ۔
الرَّفَافُ۔ بھوسہ کا چورہ۔

الرَّفِيْفُ۔ سہ۔ چھت۔ فراخ سالی _____ فنی
رَفِيْفٌ الْأَخْلَاقُ : اچھے اخلاق والا جوان۔
الرَّفَافُ۔ اسم مبالہ۔ کہا جاتا ہے "نَعَزَّ رَفَافٌ"
سفید و شفاف دانت۔

رَفًّا (ف) رَفًّا۔ الرَّفُّوبُ : کپڑے کو رن کرنا۔
حمرت کرنا _____ ہ : خوف سے تسکین دینا۔ مدد
دینا _____ تَبْنُهُمْ : صلح کرنا _____ السَّفِيْفَةُ :
کشتی کو کنارہ پر لانا۔

رَفَّاهُ تَرْفِيَةً وَتَرْفِيَةً۔ مبارک باد دینا اور
"بِالرَّفَاءِ وَالرَّبِيْنِ" کہنا۔ (بالرَّفَاءِ وَالرَّبِيْنِ) :
شادی کرنے والے کیلئے دعا ہے کہ تم دونوں میں

اتفاق و اتحاد رہے اور تمہارے بیٹے پیدا ہوں۔
أَرْفَأَ إِلَيْهِ : قریب ہونا اور بنا دینا۔
السَّيُّ إِلَيْهِ : قریب کرنا _____ الرَّجُلُ : کھٹھی
کرنا۔

السَّفِيْفَةُ : کشتی کا کنارہ سے قریب ہونا۔
أَرْفَأَهُ وَرَفَّاهُ۔ مدارات کرنا۔ مدد کرنا۔
الرَّفَاءُ۔ اتفاق۔

الرَّفَاءُ۔ رن کرنا۔
الرَّفَاءُ وَالْمُرْفَأُ۔ مِنَ الْبَحْرِ : بندر گاہ۔ ج
مَرَأِيٌّ۔

رَفَّتْ (ن) رَفْنَا۔ السَّيُّ : توڑنا۔ کوشنا۔ چورہ
کرنا) _____ وَأَرْفَتْ وَتَرْفَتْ : ٹوٹنا۔ چورہ ہونا

الرَّفِّ۔ سہ۔ الگنی۔ کٹڑی وغیرہ جس کے دونوں
کنارے دیوار میں لگا کر گھر کا سالان رکھ دیں۔
ریست کی باریک نوک۔ مویشی کا گلہ پر ندوں کی

ڈار۔ بکریوں کا بازو۔ سلام کپڑا ج زُفوف و رَفَافٍ۔
الرَّفِّ۔ اونٹوں کا گلہ۔ ہر دن کا پینا۔ کہا جاتا ہے
"أَخَذَتْهُ الْحُمَّى رَفًّا" اس کو روزانہ بخار آیا۔

الرَّفِّ وَالرَّفَّةُ۔ بھوسہ و بھوسہ کا چورہ۔
الرَّفَافُ۔ بھوسہ کا چورہ۔

الرَّفِيْفُ۔ سہ۔ چھت۔ فراخ سالی _____ فنی
رَفِيْفٌ الْأَخْلَاقُ : اچھے اخلاق والا جوان۔
الرَّفَافُ۔ اسم مبالہ۔ کہا جاتا ہے "نَعَزَّ رَفَافٌ"
سفید و شفاف دانت۔

<p>الرفیض والرفیض جھوڑا ہوا۔ الرفیض۔ من الوادی: سیلاب بننے کی جگہ۔ ج مرفض۔</p>	<p>کما جاتا ہے "هُوَ رَفِیضٌ" وہ تسمار پانی پینے میں ساتھی ہے۔</p>	<p>میں کبھی ختم نہ ہو۔ المرفیض۔ بازی کر۔ رَفُوفٌ۔ الظائر: پرندہ کا پھر پھرنا۔ الشئی: آواز کرنا۔</p>
<p>رَفَعَ (ف) رَفَعًا الشئی: اٹھانا۔ فَلَانًا عَلٰی صَاحِبِهِ فِی الْمَجْلِسِ: آگے بڑھانا۔ الكَلِمَةُ: رفع کی علامت لگانا۔ الشئی: لینا۔ الشئی فی خزانته: چھپانا۔ الجمَل فی البئیر: چلنے میں جلدی کرنا۔ القوم: ملکوں میں بھٹتے چلے جانا۔ الجمَل: تیز چلانا۔ الخدیث: پہلے قائل تک سند پہنچانا۔</p>	<p>إِرْقَصَ۔ البعور: بھادوگراں ہونا۔ الرفیضة۔ پانی پینے کی باری۔ رَفَضَ (ن ض) رَفَضًا وَرَفْضًا۔ الشئی: پھینکنا۔ جھوڑا۔ صفت رَفِیض ج رَفِیضُونَ وَرَفْضُهُ وَرَفَاضٌ () وَأَرْفَضَ (الابیل): چراگاہ میں متفرق کرنا۔ رَفَضٌ وَرَفِیضٌ الوادی: کشادہ ہونا۔</p>	<p>الرفوف۔ ککڑی وغیرہ جس کے دونوں کنارے دیوار میں لگا کر گھر کا سامان اس پر رکھ دیں۔ خیمہ کا دامن۔ زرہ کے کنارے زرہ کا لگنا ہوا حصہ۔ درخت وغیرہ کی لکٹی ہوئی شاخیں۔ ہر چیز جو زائد ہونے سے موڑ دی جائے۔ فرش۔ جھوڑا۔ بکری۔ باریک ریشمی کپڑا۔ کپڑے کی ایک چٹ جس کو پردہ یا خیمہ کے نچلے حصہ میں بیٹے ہیں۔ کما جاتا ہے "ضربت الریح وَرَفَفَ الفسظاط" ہوائے خیمہ کے دامن کو ادھر ادھر کر دیا۔ رَفُوفٌ البزوغ: زرہ کا وہ حصہ جس کو خود سے باندھ کر پھینچ پڑا لیتے ہیں۔ ج رَفَارِيف۔</p>
<p>() رَفَعًا وَرَفَاعًا وَرَفَاعَةً القَوْمُ الزرع: کاٹنے کے بعد کھلیان میں لے جانا۔ رَفَعًا وَرَفَاعًا زَبَدًا اَلِی الْحَاكِمِ: فیصلہ کرانے کے لیے جانا۔ ه اَلِی السُّلْطَانِ: پیش کرنا۔ قریب کرنا۔ کما جاتا ہے "هَذَا مَرْفَعُ الزَّائِسِ" یہ ایسا امر ہے جو سر کو بلند کر دیتا ہے یعنی باعث مجدد و بزرگی ہے۔ و "فَلَانٌ لَا يَرْفَعُ الْقَصَاعِنَ عَالِقِهِ" یعنی وہ بہت سفر کرتا ہے۔</p>	<p>رَفَضَتْ (ن) رَفُوفًا۔ الابیل: چراوے کی نگاہ کے سامنے تھمتا چرنا۔ تَرَفَضَ۔ بکھرا۔ متفرق ہونا۔ نُوثًا۔ الذمغ: آنسو بہانا اور بکھرنا۔ إِرْفَضَ۔ الذمغ: آنسو بہنا و ٹپکانا۔ الجنح: زخم سے پیپ بہنا۔ الشئی: متفرق ہو کر جانا اور اسی سے ہے "إِرْفَضَ النَّاسُ عَنَّمْ" لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔ الوجع: درد کا زائل ہونا۔ إِسْتَرَفَضَ۔ الوادی: کشادہ ہونا۔</p>	<p>چٹ جس کو پردہ یا خیمہ کے نچلے حصہ میں بیٹے ہیں۔ کما جاتا ہے "ضربت الریح وَرَفَفَ الفسظاط" ہوائے خیمہ کے دامن کو ادھر ادھر کر دیا۔ رَفُوفٌ البزوغ: زرہ کا وہ حصہ جس کو خود سے باندھ کر پھینچ پڑا لیتے ہیں۔ ج رَفَارِيف۔ الرفوف۔ ایک پرندہ جس کو "خاطف ظلہ" بھی کہتے ہیں۔ زرشتر مرغ۔ رَفُوفٌ (ض) رَفُوفًا۔ مارنا۔ الرافز۔ حرکت کرنے والی رگ۔ رَفِيسَةٌ (ن ض) رَفِيسًا وَرَفِيسًا۔ سینہ پر مارنا۔ البعير: اونٹ کے پاؤں باندھنا۔ اللمحوم ونحوہ: گوشت کا قیمہ کرنا۔ الرفاس۔ اونٹ کے پاؤں باندھنے کی رسی۔ الرفیضة۔ سینہ پر لات مارنا۔ قائفة (رفوش) دو لٹی مارنے والی اونٹنی۔</p>
<p>رَفَعَ (ک) رَفْعَةً وَرَفَاعَةً۔ عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (رَفِيع) وَرَفِيعٌ رَفَاعَةً: بلند آواز والا ہونا۔ القوت: باریک ہونا۔ صفت (رَفِيع) رَفِيعٌ لَعْنَةُ الشئی: دور سے دیکھنا۔ رَفْعَةً: بلند کرنا۔ رَفِيعٌ القَوْمُ: لڑائی سے دور کرنا۔</p>	<p>الرفیض۔ ہ۔ رَفِیضٌ وَرَفِیضٌ ج رَفِیضُونَ وَرَفِیضَةٌ ج رَفِیضُونَ۔ کما جاتا ہے "تَعَامَ رَفِیضٌ" تھوڑے متفرق شتر مرغ۔ چیز کا بکھرا ہوا حصہ۔ تھوڑی چیز۔ کما جاتا ہے "فِی الْقَرْبَةِ رَفِیضٌ مِّنْ مَّاءٍ" ٹھک میں تھوڑا سا پانی ہے۔ الرفیضة۔ جنگ وغیرہ میں اپنے قائد و رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت۔ ج رَفِیضٌ۔ اور اسی سے ہے "لَا خَیْرَ فِی الرِّفِیضِ" الرفیضة: شیعوں کی ایک جماعت اور نسبت کے لیے "رَفِیضِیٌّ" الرفیاض۔ پریشان راستے۔ الرفیاض۔ من الشئی: بکڑے۔ ریزے۔ ورجل (قَبِضَةٌ رَفِیضَةٌ) قبضہ کرنے والا اور چھوڑ دینے والا مرد۔</p>	<p>رَفِيسَةٌ (ن) رَفِيسًا۔ کھانے پینے میں قائدہ اٹھانا۔ خوب کھانا پینا۔ القمیح: گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر لے جانا۔ الشئی: کوشا۔ رَفُوفًا فِی الْأَمْرِ: کشادہ ہونا۔ رَفِيشٌ (س) رَفِيشًا۔ چوڑے کالوں والا ہونا۔ صفت (أَرْفِيشٌ) مَوْنٌ رَفِيشٌ۔ ج رَفِيشٌ۔ رَفِيشٌ۔ لَحِيشَةٌ: وراثی میں کٹھن کرنا۔ الرفیاض۔ گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر مارنے والے کے پاس ڈالنے والا۔ الرفیض۔ پیچے۔ کشتی کا چبوتہ۔ المیز رفیضة۔ پیچے۔ رَفِیضٌ۔ نَزَفَ الرِّفِیضُ المَاءَ: باری باری پانی پر آنا۔ ہر ایک، آنے والے کو (رَفِیضٌ) کہتے ہیں۔</p>
<p>رَفَعَهُ رَفْعًا وَرَفَاعَةً۔ عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (رَفِيع) وَرَفِيعٌ رَفَاعَةً: بلند آواز والا ہونا۔ القوت: باریک ہونا۔ صفت (رَفِيع) رَفِيعٌ لَعْنَةُ الشئی: دور سے دیکھنا۔ رَفْعَةً: بلند کرنا۔ رَفِيعٌ القَوْمُ: لڑائی سے دور کرنا۔</p>	<p>الرفیض۔ ہ۔ رَفِیضٌ وَرَفِیضٌ ج رَفِیضُونَ وَرَفِیضَةٌ ج رَفِیضُونَ۔ کما جاتا ہے "تَعَامَ رَفِیضٌ" تھوڑے متفرق شتر مرغ۔ چیز کا بکھرا ہوا حصہ۔ تھوڑی چیز۔ کما جاتا ہے "فِی الْقَرْبَةِ رَفِیضٌ مِّنْ مَّاءٍ" ٹھک میں تھوڑا سا پانی ہے۔ الرفیضة۔ جنگ وغیرہ میں اپنے قائد و رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت۔ ج رَفِیضٌ۔ اور اسی سے ہے "لَا خَیْرَ فِی الرِّفِیضِ" الرفیضة: شیعوں کی ایک جماعت اور نسبت کے لیے "رَفِیضِیٌّ" الرفیاض۔ پریشان راستے۔ الرفیاض۔ من الشئی: بکڑے۔ ریزے۔ ورجل (قَبِضَةٌ رَفِیضَةٌ) قبضہ کرنے والا اور چھوڑ دینے والا مرد۔</p>	<p>رَفِيسَةٌ (ن) رَفِيسًا۔ کھانے پینے میں قائدہ اٹھانا۔ خوب کھانا پینا۔ القمیح: گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر لے جانا۔ الشئی: کوشا۔ رَفُوفًا فِی الْأَمْرِ: کشادہ ہونا۔ رَفِيشٌ (س) رَفِيشًا۔ چوڑے کالوں والا ہونا۔ صفت (أَرْفِيشٌ) مَوْنٌ رَفِيشٌ۔ ج رَفِيشٌ۔ رَفِيشٌ۔ لَحِيشَةٌ: وراثی میں کٹھن کرنا۔ الرفیاض۔ گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر مارنے والے کے پاس ڈالنے والا۔ الرفیض۔ پیچے۔ کشتی کا چبوتہ۔ المیز رفیضة۔ پیچے۔ رَفِیضٌ۔ نَزَفَ الرِّفِیضُ المَاءَ: باری باری پانی پر آنا۔ ہر ایک، آنے والے کو (رَفِیضٌ) کہتے ہیں۔</p>
<p>رَفَعَهُ رَفْعًا وَرَفَاعَةً۔ عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (رَفِيع) وَرَفِيعٌ رَفَاعَةً: بلند آواز والا ہونا۔ القوت: باریک ہونا۔ صفت (رَفِيع) رَفِيعٌ لَعْنَةُ الشئی: دور سے دیکھنا۔ رَفْعَةً: بلند کرنا۔ رَفِيعٌ القَوْمُ: لڑائی سے دور کرنا۔</p>	<p>الرفیض۔ ہ۔ رَفِیضٌ وَرَفِیضٌ ج رَفِیضُونَ وَرَفِیضَةٌ ج رَفِیضُونَ۔ کما جاتا ہے "تَعَامَ رَفِیضٌ" تھوڑے متفرق شتر مرغ۔ چیز کا بکھرا ہوا حصہ۔ تھوڑی چیز۔ کما جاتا ہے "فِی الْقَرْبَةِ رَفِیضٌ مِّنْ مَّاءٍ" ٹھک میں تھوڑا سا پانی ہے۔ الرفیضة۔ جنگ وغیرہ میں اپنے قائد و رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت۔ ج رَفِیضٌ۔ اور اسی سے ہے "لَا خَیْرَ فِی الرِّفِیضِ" الرفیضة: شیعوں کی ایک جماعت اور نسبت کے لیے "رَفِیضِیٌّ" الرفیاض۔ پریشان راستے۔ الرفیاض۔ من الشئی: بکڑے۔ ریزے۔ ورجل (قَبِضَةٌ رَفِیضَةٌ) قبضہ کرنے والا اور چھوڑ دینے والا مرد۔</p>	<p>رَفِيسَةٌ (ن) رَفِيسًا۔ کھانے پینے میں قائدہ اٹھانا۔ خوب کھانا پینا۔ القمیح: گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر لے جانا۔ الشئی: کوشا۔ رَفُوفًا فِی الْأَمْرِ: کشادہ ہونا۔ رَفِيشٌ (س) رَفِيشًا۔ چوڑے کالوں والا ہونا۔ صفت (أَرْفِيشٌ) مَوْنٌ رَفِيشٌ۔ ج رَفِيشٌ۔ رَفِيشٌ۔ لَحِيشَةٌ: وراثی میں کٹھن کرنا۔ الرفیاض۔ گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر مارنے والے کے پاس ڈالنے والا۔ الرفیض۔ پیچے۔ کشتی کا چبوتہ۔ المیز رفیضة۔ پیچے۔ رَفِیضٌ۔ نَزَفَ الرِّفِیضُ المَاءَ: باری باری پانی پر آنا۔ ہر ایک، آنے والے کو (رَفِیضٌ) کہتے ہیں۔</p>
<p>رَفَعَهُ رَفْعًا وَرَفَاعَةً۔ عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (رَفِيع) وَرَفِيعٌ رَفَاعَةً: بلند آواز والا ہونا۔ القوت: باریک ہونا۔ صفت (رَفِيع) رَفِيعٌ لَعْنَةُ الشئی: دور سے دیکھنا۔ رَفْعَةً: بلند کرنا۔ رَفِيعٌ القَوْمُ: لڑائی سے دور کرنا۔</p>	<p>الرفیض۔ ہ۔ رَفِیضٌ وَرَفِیضٌ ج رَفِیضُونَ وَرَفِیضَةٌ ج رَفِیضُونَ۔ کما جاتا ہے "تَعَامَ رَفِیضٌ" تھوڑے متفرق شتر مرغ۔ چیز کا بکھرا ہوا حصہ۔ تھوڑی چیز۔ کما جاتا ہے "فِی الْقَرْبَةِ رَفِیضٌ مِّنْ مَّاءٍ" ٹھک میں تھوڑا سا پانی ہے۔ الرفیضة۔ جنگ وغیرہ میں اپنے قائد و رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت۔ ج رَفِیضٌ۔ اور اسی سے ہے "لَا خَیْرَ فِی الرِّفِیضِ" الرفیضة: شیعوں کی ایک جماعت اور نسبت کے لیے "رَفِیضِیٌّ" الرفیاض۔ پریشان راستے۔ الرفیاض۔ من الشئی: بکڑے۔ ریزے۔ ورجل (قَبِضَةٌ رَفِیضَةٌ) قبضہ کرنے والا اور چھوڑ دینے والا مرد۔</p>	<p>رَفِيسَةٌ (ن) رَفِيسًا۔ کھانے پینے میں قائدہ اٹھانا۔ خوب کھانا پینا۔ القمیح: گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر لے جانا۔ الشئی: کوشا۔ رَفُوفًا فِی الْأَمْرِ: کشادہ ہونا۔ رَفِيشٌ (س) رَفِيشًا۔ چوڑے کالوں والا ہونا۔ صفت (أَرْفِيشٌ) مَوْنٌ رَفِيشٌ۔ ج رَفِيشٌ۔ رَفِيشٌ۔ لَحِيشَةٌ: وراثی میں کٹھن کرنا۔ الرفیاض۔ گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر مارنے والے کے پاس ڈالنے والا۔ الرفیض۔ پیچے۔ کشتی کا چبوتہ۔ المیز رفیضة۔ پیچے۔ رَفِیضٌ۔ نَزَفَ الرِّفِیضُ المَاءَ: باری باری پانی پر آنا۔ ہر ایک، آنے والے کو (رَفِیضٌ) کہتے ہیں۔</p>
<p>رَفَعَهُ رَفْعًا وَرَفَاعَةً۔ عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (رَفِيع) وَرَفِيعٌ رَفَاعَةً: بلند آواز والا ہونا۔ القوت: باریک ہونا۔ صفت (رَفِيع) رَفِيعٌ لَعْنَةُ الشئی: دور سے دیکھنا۔ رَفْعَةً: بلند کرنا۔ رَفِيعٌ القَوْمُ: لڑائی سے دور کرنا۔</p>	<p>الرفیض۔ ہ۔ رَفِیضٌ وَرَفِیضٌ ج رَفِیضُونَ وَرَفِیضَةٌ ج رَفِیضُونَ۔ کما جاتا ہے "تَعَامَ رَفِیضٌ" تھوڑے متفرق شتر مرغ۔ چیز کا بکھرا ہوا حصہ۔ تھوڑی چیز۔ کما جاتا ہے "فِی الْقَرْبَةِ رَفِیضٌ مِّنْ مَّاءٍ" ٹھک میں تھوڑا سا پانی ہے۔ الرفیضة۔ جنگ وغیرہ میں اپنے قائد و رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت۔ ج رَفِیضٌ۔ اور اسی سے ہے "لَا خَیْرَ فِی الرِّفِیضِ" الرفیضة: شیعوں کی ایک جماعت اور نسبت کے لیے "رَفِیضِیٌّ" الرفیاض۔ پریشان راستے۔ الرفیاض۔ من الشئی: بکڑے۔ ریزے۔ ورجل (قَبِضَةٌ رَفِیضَةٌ) قبضہ کرنے والا اور چھوڑ دینے والا مرد۔</p>	<p>رَفِيسَةٌ (ن) رَفِيسًا۔ کھانے پینے میں قائدہ اٹھانا۔ خوب کھانا پینا۔ القمیح: گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر لے جانا۔ الشئی: کوشا۔ رَفُوفًا فِی الْأَمْرِ: کشادہ ہونا۔ رَفِيشٌ (س) رَفِيشًا۔ چوڑے کالوں والا ہونا۔ صفت (أَرْفِيشٌ) مَوْنٌ رَفِيشٌ۔ ج رَفِيشٌ۔ رَفِيشٌ۔ لَحِيشَةٌ: وراثی میں کٹھن کرنا۔ الرفیاض۔ گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر مارنے والے کے پاس ڈالنے والا۔ الرفیض۔ پیچے۔ کشتی کا چبوتہ۔ المیز رفیضة۔ پیچے۔ رَفِیضٌ۔ نَزَفَ الرِّفِیضُ المَاءَ: باری باری پانی پر آنا۔ ہر ایک، آنے والے کو (رَفِیضٌ) کہتے ہیں۔</p>
<p>رَفَعَهُ رَفْعًا وَرَفَاعَةً۔ عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (رَفِيع) وَرَفِيعٌ رَفَاعَةً: بلند آواز والا ہونا۔ القوت: باریک ہونا۔ صفت (رَفِيع) رَفِيعٌ لَعْنَةُ الشئی: دور سے دیکھنا۔ رَفْعَةً: بلند کرنا۔ رَفِيعٌ القَوْمُ: لڑائی سے دور کرنا۔</p>	<p>الرفیض۔ ہ۔ رَفِیضٌ وَرَفِیضٌ ج رَفِیضُونَ وَرَفِیضَةٌ ج رَفِیضُونَ۔ کما جاتا ہے "تَعَامَ رَفِیضٌ" تھوڑے متفرق شتر مرغ۔ چیز کا بکھرا ہوا حصہ۔ تھوڑی چیز۔ کما جاتا ہے "فِی الْقَرْبَةِ رَفِیضٌ مِّنْ مَّاءٍ" ٹھک میں تھوڑا سا پانی ہے۔ الرفیضة۔ جنگ وغیرہ میں اپنے قائد و رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت۔ ج رَفِیضٌ۔ اور اسی سے ہے "لَا خَیْرَ فِی الرِّفِیضِ" الرفیضة: شیعوں کی ایک جماعت اور نسبت کے لیے "رَفِیضِیٌّ" الرفیاض۔ پریشان راستے۔ الرفیاض۔ من الشئی: بکڑے۔ ریزے۔ ورجل (قَبِضَةٌ رَفِیضَةٌ) قبضہ کرنے والا اور چھوڑ دینے والا مرد۔</p>	<p>رَفِيسَةٌ (ن) رَفِيسًا۔ کھانے پینے میں قائدہ اٹھانا۔ خوب کھانا پینا۔ القمیح: گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر لے جانا۔ الشئی: کوشا۔ رَفُوفًا فِی الْأَمْرِ: کشادہ ہونا۔ رَفِيشٌ (س) رَفِيشًا۔ چوڑے کالوں والا ہونا۔ صفت (أَرْفِيشٌ) مَوْنٌ رَفِيشٌ۔ ج رَفِيشٌ۔ رَفِيشٌ۔ لَحِيشَةٌ: وراثی میں کٹھن کرنا۔ الرفیاض۔ گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر مارنے والے کے پاس ڈالنے والا۔ الرفیض۔ پیچے۔ کشتی کا چبوتہ۔ المیز رفیضة۔ پیچے۔ رَفِیضٌ۔ نَزَفَ الرِّفِیضُ المَاءَ: باری باری پانی پر آنا۔ ہر ایک، آنے والے کو (رَفِیضٌ) کہتے ہیں۔</p>
<p>رَفَعَهُ رَفْعًا وَرَفَاعَةً۔ عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (رَفِيع) وَرَفِيعٌ رَفَاعَةً: بلند آواز والا ہونا۔ القوت: باریک ہونا۔ صفت (رَفِيع) رَفِيعٌ لَعْنَةُ الشئی: دور سے دیکھنا۔ رَفْعَةً: بلند کرنا۔ رَفِيعٌ القَوْمُ: لڑائی سے دور کرنا۔</p>	<p>الرفیض۔ ہ۔ رَفِیضٌ وَرَفِیضٌ ج رَفِیضُونَ وَرَفِیضَةٌ ج رَفِیضُونَ۔ کما جاتا ہے "تَعَامَ رَفِیضٌ" تھوڑے متفرق شتر مرغ۔ چیز کا بکھرا ہوا حصہ۔ تھوڑی چیز۔ کما جاتا ہے "فِی الْقَرْبَةِ رَفِیضٌ مِّنْ مَّاءٍ" ٹھک میں تھوڑا سا پانی ہے۔ الرفیضة۔ جنگ وغیرہ میں اپنے قائد و رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت۔ ج رَفِیضٌ۔ اور اسی سے ہے "لَا خَیْرَ فِی الرِّفِیضِ" الرفیضة: شیعوں کی ایک جماعت اور نسبت کے لیے "رَفِیضِیٌّ" الرفیاض۔ پریشان راستے۔ الرفیاض۔ من الشئی: بکڑے۔ ریزے۔ ورجل (قَبِضَةٌ رَفِیضَةٌ) قبضہ کرنے والا اور چھوڑ دینے والا مرد۔</p>	<p>رَفِيسَةٌ (ن) رَفِيسًا۔ کھانے پینے میں قائدہ اٹھانا۔ خوب کھانا پینا۔ القمیح: گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر لے جانا۔ الشئی: کوشا۔ رَفُوفًا فِی الْأَمْرِ: کشادہ ہونا۔ رَفِيشٌ (س) رَفِيشًا۔ چوڑے کالوں والا ہونا۔ صفت (أَرْفِيشٌ) مَوْنٌ رَفِيشٌ۔ ج رَفِيشٌ۔ رَفِيشٌ۔ لَحِيشَةٌ: وراثی میں کٹھن کرنا۔ الرفیاض۔ گیہوں کو پیچے سے اٹھا کر مارنے والے کے پاس ڈالنے والا۔ الرفیض۔ پیچے۔ کشتی کا چبوتہ۔ المیز رفیضة۔ پیچے۔ رَفِیضٌ۔ نَزَفَ الرِّفِیضُ المَاءَ: باری باری پانی پر آنا۔ ہر ایک، آنے والے کو (رَفِیضٌ) کہتے ہیں۔</p>

الرفاق: اونٹنی کے بازو باندھنے کی رتی۔ ج زرفق۔
الرفیق: ساتھی۔ مہربان۔ ج زرفق۔
المزرفق: والمزرفق۔ کنسی۔ ہر وہ چیز جس سے
سارایا جائے۔ ج مزرفق۔

المزرفق: ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے اور
اس سے ہے "مزرفق الذار" یعنی گھر کے منافع
جیسے کواں یا اورچی خانہ یا خانہ وغیرہ۔ "مزرفق
البلاد" شہر کے منافع جس سے سارے باشندے
مستفید ہوں۔

المزرفقة: چھوٹا ٹکڑے جس پر سوتے ہوئے
رخسار رکھتے ہیں۔

المزرفق المزرفق: تکیہ لگانے کی جگہ۔

المزرفق: ہر اوہا۔ ثابت۔

زفل (ن) زفلأ وزفلوأ وزفلأنا۔ دامن
تھمٹے ہوئے ناز سے چلنا۔ ہاتھ ہلاتے ہوئے چلنا۔

صفت مذکر (زفل)

صفت مؤنث زفلأ۔

زفل (ن) زفلأ وزفل (س) زفلأ۔ بد نما لباس
پننا۔ بے ڈھنگے طریقے سے کام کرنا۔ صفت مذکر

(زفل وزفل) صفت مؤنث زفلأ۔

زفل۔ دامن گھسیٹنا۔ ناز سے چلنا۔

ثباتہ: کپڑوں کو لٹکانا۔ کہا جاتا ہے "زفل

رفلہ" اس نے دامن لٹکایا۔

زفلأ۔ تعظیم کرنا۔ سردار بنانا۔ مالک بنانا۔ ذلیل

کرنا۔ الازار: ازار لٹکانا اور ناز سے چلنا۔

تزفل۔ تکبر کی وجہ سے ناز سے چلنا۔

تزفل۔ علیہ: رتیں اور سردار بننا۔

الرفل۔ دامن۔

الزفل۔ ص۔ من البینو: کنوئیں کی تہ کا تھوڑا

پانی۔

الرفل۔ لیے دامن والا۔ لمبی دم والا گھوڑا۔

بست گوشت والا۔ کشادہ کمر۔

عیش زفل: کشادہ زندگی۔

الرفال۔ من الشعر: لمبے بال۔

المزفال۔ من الرجال والنساء: دامن

گھمٹے ہوئے ناز سے چلنے والا یا چلنے والی۔

إزفان إزفینان: بھانگنا اور پھر ٹھہرنا۔ إزفان

عصبیہ: غصہ کا ٹھنڈا پڑنا۔

ہو جاتا ہے۔

الزرفع: ناخن کا میل۔

المزرفع: کج ران و بخل (جمع ہے اور اس کا
واحد نہیں)۔

المزرفعه: ننگ اندام نہانی والی عورت جس
سے کوئی بھلا نہ کر سکے۔

زرفقة (ن) زرفقا: نفع پہنچانا۔ مدد کرنا۔ کنسی پر مارنا

التاقفة: اونٹنی کے بازو کو باندھنا۔ العفل:
مضبوطی سے کرنا۔

زرفق و زرفق (ن و ک) وزرفق (س) زرفقا
ومزرفقا ومزرفقا ومزرفقا۔ بہ ولہ وعلیہ: مہربانی

کا برتاؤ کرنا۔

زرفق (س) زرفقا: الجینو: پہلو سے مڑی ہوئی

کنسی والا ہونا۔ صفت (ازرفق)

زرفق (ک) زرفاقہ: الزجل: ساتھی ہونا۔

زرفقہ: رفیق ہونا۔ ساتھی ہونا۔ کہا جاتا ہے

"زرفقہ فی السفر" وہ سفر میں اس کے ساتھ رہا۔

ازرفقہ: مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ نفع پہنچانا۔

تزرفق: بہ: مہربانی کا برتاؤ کرنا۔

علیہ: سارا لینا۔

تزرفق۔ الرجلان: ایک دوسرے کا ساتھی

ہونا۔

ازرفق: کنسی یا تکیہ پر ٹیک لگانا۔ مدد طلب کرنا۔

الإناء: بھرجانا القوفم: سفر میں باہم ساتھی ہونا۔

بہ: نفع اٹھانا۔

استزرفقة: مہربانی طلب کرنا۔ نفع رسائی طلب

کرنا۔

تمزرفق: تکیہ لینا۔

الرفق: ص۔ نرم برتاؤ۔ مہربانی۔ ہر وہ چیز جس سے

مدد ملی جائے۔

الرفق: ص۔ نرم۔ آسان۔ کہا جاتا ہے "ہذا أمر

زرفق البغیة" یہ سسل المحمول معاملہ ہے۔ الزرفق:

تھن میں دودھ کی تالیوں میں خرابی۔ ناقفة (رفقة):

وزرفقاء) اونٹنی جس کے تھن کے اندر دودھ کی

تالیوں میں خرابی ہو۔

الرفقة والزرفقة والزرفقة والزرفقة: ساتھیوں

کی جماعت۔ ج زرفاق وزرفق وزرفق وزرفاق۔

الرفقة: لطف و مہربانی۔ ہتر سلوک۔

الشئی: بلند ہونا۔

استزرفع۔ الشئی: اٹھانے کو کہنا۔
الخوان: دسترخوان خالی ہونا اور اٹھانے کا وقت
آنا۔

الزرافع۔ قابض زرافع: چمکنے والی بجلی۔
الرفعة: ص۔ بلندی و مرتبہ۔

الزرافع والزرافع: کھیتی میں دانے کا موٹا ہونا۔
کٹی ہوئی کھیتی کا ٹکلیاں میں لے جانا۔

الزرافعة والزرافعة والزرافعة: من

الصوت: آواز کی بلندی و شدت۔ الزرافعة

والزرافعة: گدی جس کو عورتیں اپنے سر میں پر

بیاض معلوم ہونے کیلئے باندھتی ہیں۔

الزرفعة: حاکم کے سامنے پیش کیا ہوا معاملہ۔

المزرفوع: ص۔ ایک قسم کی تیز روڑ۔

من الکلام: بلند گفتگو۔ والمحدث المزرفوع

عند المحدثین: وہ حدیث جس کی سند نبی

کریم ﷺ تک متصل ہو۔

المزرفع: بلند کرنے کا آلہ۔

المزرفع والمزرفع: عند المسیحین:

مسیحوں کے روزہ سے پہلے کچھ مقررہ دن۔

زرفع (ک) زرفاعة: العیش: کشادہ و آسودہ

ہونا۔ صفت (الرفع وزرفع وزرفع)

ازرفع: لہ المعاش: آسودہ و کشادہ بنانا۔

تزرفع: آسودگی میں زندگی بسر کرنا۔

جماع کے لیے عورت کی دونوں رانوں کے

درمیان بیٹھنا۔

الزرفع: ج ازرفع وزرفع: وادی کی بست بری

جگہ۔ بست خاک والی زمین۔ کہا جاتا ہے "جاء

بمآل ترفع الثراب" یعنی وہ بست زیادہ مال لایا۔

گوشہ۔ ج ازرفع وزرفع: جسم میں میل

جمع ہونے کی جگہ۔ جوار کا بھوسہ۔

ازرفع الناس: نااہل دیکھنے لوگ۔

(الزرفع والزرافعة والزرافعية) آسودہ زندگی

کیلش زرفع: نرم چوڑے کا گارہ۔ الزرفع: ناخن کا

میل۔

الزرفع: بخل۔ اندام نہانی کا ارد گرد۔ اور اسی

سے ہے "إذا التقى الزرفعان وجب الغسل"

یعنی جب دونوں شرمگاہ مل جائیں تو غسل واجب

الرَّقَابِيَّةُ: فراخی زندگی۔
الرَّقَبَانِ: انڈا۔

الرِّقَانُ: آہستہ آہستہ قطروں والی بارش۔
الرَّقَابِيَّةُ: تازے چلنے والی عورت۔

الرَّقَبُ: لمبی ڈوم والا کھوڑا۔

رَقَّةٌ (ف) رَقْفًا وَرَقْفًا وَرَقْفًا: خوش حال ہونا۔ صفت (زالفہ و زلفھان)

رَقْفَتِ الْاِبْلِ: حسب مرضی روزانہ پانی پر آنا۔ صفت (زالفیة) ج زوافہ۔

رَقَّةٌ (ک) رَقْفًا وَرَقَابِيَّةً وَرَقَابِيَّةً الْعَيْشِ: زندگی کا خوش گوار و آسودہ ہونا۔ صفت (زالفہ و زلفہ)

رَقَّةٌ وَرَقْفَةٌ: الزَّجَلُ: آسودہ و خوشحال بنانا۔
رَقْفَةُ عَيْنِهِ: مہلت دینا۔ بار غم ہلکا کرنا۔ کشادگی کرنا۔

أَرْقَفَهُ وَرَقْفَةَ الزَّوْجِيِّ الْاِبْلِ: حسب مرضی آنے دینا۔
أَرْقَفَتِ الْاِبِلُ: اونٹ کا پانی کے قریب رہنا۔
أَرْقَفَ الْقَوْمَ قَوْمَ كَمْوَيْسَ كَاسْبِ مَرَضِي رُوزَانِ پانی پر آنا۔

رَقْفَةُ عَيْنِهِ: بچی درج دور کیا جانا۔
أَرْقَفَهُ وَرَقْفَهُ وَاسْتَرْقَفَهُ: آرام لینا۔
الرَّقْفَةُ: چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت۔
الرَّقْفَةُ: رحمت و مہربانی۔

هُوَ (ر) رَقْفًا: وہ اس پر مہربان ہے۔
الرَّقْفِيَّةُ: فراخی، عیش، آرزوئی۔
الرَّقْفَةُ: خشک گھاس اور اسی سے مثل ہے

”أَخْنَى مِنَ الثَّقَفَةِ عَنِ الرَّقْفَةِ“
رَقْفًا (ن) رَقْفًا: الثَّوْبُ: کپڑے پر رفو کرنا۔
درست کرنا۔ صفت (زالفہ) ج زوافة اور صفت

مفعولی (مَرْقُوقٌ) _____ ہ: ڈر دور کرنا۔ فاقہ دور کرنا۔

رَقْفِي تَرْقِيَّةً: العَرِيْسُ: شادی شدہ کو عاریتاً اور ”بِالرَّقَابِيَّةِ وَالْبَيْتِيْنِ“ کہنا۔

رَالِي رِقَابًا وَرَقَابِيَّةً: الزَّجَلُ: موافقت کرنا۔
أَرْقِي: الْبَيْتُ: بنا لینا۔

تَرَقِي: الْقَوْمَ عَلَى الْأَمْرِ: باہم موافق ہونا۔
الرِقَابُ: اتفاق و موافقت۔

الرَّقَابِيَّةُ: ڈھیلے پن کے ساتھ لمبے کانوں والا۔
مَوْثَرٌ رَقَابًا ج رَقْفًا

الرَّقَابِيَّةُ: ہرن کا دودھ یا مطلقاً دودھ۔

رَقٌّ (ض) رَقَّةً: چٹا ہونا _____ لُةً: رحم کرنا
وَجُحْمًا: شرم کرنا _____ الزَّجَلُ: بڑے

حال والا اور کم مال والا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”رَقْفٌ عِظَامُهُ“ یعنی پوڑھا ہو گیا۔

رَقٌّ (ض) رِقَابًا: الْعَبْدُ: غلام بنانا یا غلام رہنا۔
رَقْفَةٌ: چٹا کرنا۔ رَقْفُ اللَّفْظِ: نرمی سے پڑھنا

_____ الْكَلَامِ: خوبصورتی سے گفتگو کرنا۔
_____ مَضِيَّةً: آہستہ چلنا _____ مَا يَمِينُ الْقَوْمِ: نساؤ زانا۔

أَرْقَى: الشَّمْسُ: چٹا کرنا _____ الزَّوْجِيَّةُ: دل کو نرم کرنا _____ الزَّجَلُ: کم مال والا ہونا۔

_____ الْعَيْبُ: انگور کا پتے جھلکے اور زیادہ شیرہ والا ہونا _____ الْعَبْدُ: غلام کمالک ہونا۔

تَرَقَّقَ: الشَّمْسُ: چٹا ہونا _____ لُةً: رحم کھانا۔
تَرَسَ: کھانا۔

اسْتَرْقَى: الشَّمْسُ: چٹا ہونا _____ الْعَبْدُ: غلام کمالک ہونا _____ اللَّيْلُ: رات کا اکثر حصہ گزر جانا _____ النَّهَاءُ: پیاب ہو جانا۔

الرَّقِي: غلامی۔ چلی چیز۔ چلی کمال۔ جس پر کھسا جائے۔ سفید کانڈ کا تختہ۔ درخت کے پتے یا جانوروں کے لیے آسانی سے حاصل ہونے والی شہنائیں۔

الرَّقِي: لکھنے کے لیے چلی کمال۔ سفید کانڈ کا تختہ۔
چٹا۔ مگر چھ کے مشابہ ایک آبی جانور۔ بڑا یا نہ چھو۔
ج رَقْفًا

الرَّقِي وَالرَّقِي وَالرَّقِي: نرم و کشادہ زمین۔ الزَّقِي: مسند ریادادی کا پتلا پانی۔

الرَّقِي: کمزوری۔ باریکی۔ کھانے کا پتلا پن۔
الرَّقِي: زمین چوہائی سے بھر جائے اور پھر خشک ہو جائے۔ ج رِقَابًا: الرَّقِي: ایک شہر کا نام۔ الرَّقِيَانِ: دو شہر ہیں جن کے نام رَقْفًا وَرَقْفًا ہیں اور یہ باب

تعلیب سے ہے۔
الرَّقِي: رحمت۔ مہربانی۔ شرم۔ باریکی۔ رَقَّةٌ الْعَيْشِ: زندگی کی آسودگی۔ رَقَّةٌ الْحَايِبِ: ضعف و کمزوری سے کٹنا ہے۔

الرَّقَابِيَّةُ: بیابان۔ ہموار نرم زمین یا وہ زمین جس پر سے پانی خشک ہو چکا ہو۔

الرَّقَابِيَّةُ: چٹا۔ چلی روٹی۔ واحد (الرَّقَابِيَّةُ) نرم مٹی والی کشادہ زمین یا وہ زمین جس پر سے پانی خشک ہو چکا ہو۔

الرَّقَابِيَّةُ: چٹا۔ ج أَرْقَاءُ مَوْثَرٌ وَرَقْبَةٌ: ج رِقَابًا: کہا جاتا ہے ”هُوَ رَقْبِيٌّ مَعَالِي“ وہ لطیف معالی والا ہے۔ و ”عَيْشٌ وَرَقْبِيٌّ الْحَوَائِشِي“ یعنی خوش حالی اور آسودگی والی زندگی و ”رَجُلٌ رَقْبِيٌّ الْحَايِلُ“ کم مال والا مرد۔ و ”لَقَطٌ رَقْبِيٌّ“ یعنی آسان و خوشگوار لفظ۔

الرَّقَابِيَّةُ: غلام۔ (واحد و جمع دونوں کے لئے) کہا جاتا ہے۔ عِبْدٌ رَقْبِيٌّ وَعَيْبِدٌ رَقْبِيٌّ اور کبھی أَرْقَاءُ جمع بولتے ہیں اور باندی کے لیے رَقْبِيٌّ اور رَقْبِيَّةٌ دونوں کا استعمال ہے۔ رَقْبِيٌّ الْأَنْفِ: ناک کا نرم حصہ۔ الرَّقَابِيَّةُ: ناک کے نتھنوں کے کنارے۔

مَرَقًا: الْبَطْنُ: پیٹ کا نرم و پتلا حصہ۔
الرَّقَابِيَّةُ: چوڑی چلی روٹی۔
الرَّقَابِيَّةُ: بیلن۔

الرَّقَابِيَّةُ: چڑ کا نرم حصہ۔
رَقْفًا (ف) رَقْفًا وَرَقْفًا: الدَّفْعُ أَوْ الدَّمُ: آنسو یا خون کا خشک ہونا۔ منقطع ہونا۔ رَقْفًا بَيْتَهُمْ: صلح کرنا۔ نساؤ ذانا _____ فِينِ الدَّرَجَةِ: چڑھنا۔ کہا جاتا ہے ”أَرْقَأَ عَلَيَّ صَلَّعَكَ“ اِرْقَى عَلَيَّ طَلْعَكَ میں ایک لغت ہے۔ یعنی اپنے اوپر نرمی کرو اور استطاعت سے زیادہ بوجھ مت لا دو۔

أَرْقَأَ الدَّمُ أَوْ الدَّمْعَ: خشک کرنا۔
الرَّقَابِيَّةُ: خون بند کرنے والی چیز۔ قوم کے درمیان صلح کرانے والا۔
الرَّقَابِيَّةُ: مِيزْمِيَّةُ: زینہ۔
الرَّقَابِيَّةُ: نساؤ۔

رَقْبَةً (ن) رَقْبًا وَرَقْبًا وَرَقَابَةً وَرَقَابًا: وَرَقْبَةً وَرَقْبَةً: تھمبائی کرنا، انتظار کرنا، ڈرانا _____ التَّجَمُّ: ستاروں کی دیکھ بھال کرنا _____ ہ: گلے میں رتی ڈالنا۔

رَقْبَةً: تھمبائی کرنا۔ رَقْبَةُ اللَّهِ فِي أَمْرِهِ: خوف کرنا۔
أَرْقَبَةُ: الدَّارُ: بشرط رَقْبِيٌّ زندگی بھر کے

لئے دینا (دیکھو لفظ رقبہ) ارقبہ الرقبی: کسی کے لیے رقبہ کرنا (دیکھو لفظ رقبہ)
 تَوَقَّبُوا رِقَبَةَ انْتظار کرنا۔ اِرْقَبَ الْمَكَانَ
 چڑھنا۔
 تَوَقَّبْنَا اِیک دو سرے کی نگہبانی کرنا۔
 الرقبہ۔ گردن کی موٹائی۔
 الرقبی۔ کسی کو مکان وغیرہ اس شرط پر دینا کہ
 اگر میں تم سے پہلے مرجاؤں تو یہ مکان تمہارے
 لیے ہے اور تم مر گئے تو پھر میں واپس لے لوں گا۔
 الرقبۃ۔ احتیاط۔ بچاؤ۔ نگہبانی۔ خوف۔ ڈر۔
 گھبراہٹ۔ کہا جاتا ہے "وَرِثَ مَا لَا عَنْ رِقْبَةٍ"
 جبکہ مال آہام و اجداد سے حاصل نہ کیا ہو۔ ایسے ہی
 کہا جاتا ہے "وَرِثَ مَجْدًا عَنْ رِقْبَةٍ" جبکہ
 آباؤ اجداد صاحب مہر نہ ہوں۔
 الرقبۃ۔ گردن یا پس گردن۔ رجب رقباب و
 رقباب و رقب و ارقب۔ الرقبۃ: مملوک غلام
 (مجازاً) کہا جاتا ہے "هَمَّ غِلَاطُ الرِقَابِ" وہ
 سخت اور سرکش لوگ ہیں۔
 الرقبۃ۔ چیتے کے شکار کے لیے گڑھا جسے زبیر
 شیر کے لئے۔
 الازقب۔ مؤنث رقباء۔ و (الزقبان
 والزقبانی) مؤنث گردن والا۔ الازقب: شیر۔
 الرقبوب۔ میراث کے لیے اپنے شوہر کی موت
 کا انتظار کرنے والی عورت۔ وہ عورت جس کا بیٹہ
 مر گیا ہو یا وہ جس کا بیٹہ زندہ نہ رہتا ہو۔ الرقبوب
 مِنَ الشُّبُوحِ وَالْاَزَابِلِ: وہ لوگ جن کی کوئی
 کمائی نہ ہو اور نہ وہ کمائی کرنے کی طاقت رکھتے
 ہوں۔ اُمُّ الرقبوب: مصیبت۔
 الرقبیب۔ رجب و رقباء۔ نگہبان۔ محافظ۔ گھنٹھریس
 ماندگان۔ بچاؤ اور بھائی جوئے کے تیروں میں سے
 تیسرا تیر۔ ایک ستارہ کا نام۔ رقبیب الجنیش:
 وہ دیان۔ رجب و رقبیبات: ایک غیبی قسم کا
 زہریلا سانپ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رِقْبِيبٌ لِنَفْسِهِ"
 وہ اپنے اعمال کا خود ہی نقاد ہے۔ کسی کو کچھ کہنے کا
 موقع نہیں دیتا۔ نیز "الرقيب" اللہ تعالیٰ کے
 اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔
 الرقابۃ۔ مالک کی غیوبت میں مال کی گھرائی
 کرنے والا خادم۔

المرقب والمراقبة۔ گھرائی کرنے کی اونچی جگہ
 رجب مراقب۔
 المرقب۔ دور بین۔
 رقب۔ مآلہ۔ بہتر انتظام کرنا۔
 ترقب۔ لعیالیہ: کمائی کرنا۔
 اِرْقَبَ۔ زیادہ ہونا۔
 الرقابۃ۔ کمائی تجارت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 (رَالِحَةٌ) اَهْلُهُ" وہ اپنے اہل و عیال کیلئے کمائی
 کرنے والا ہے۔
 الرقابجی۔ سوداگر۔
 رَقْدٌ (ن) رَقْدًا وَرَقْدًا وَرَقَادًا۔ سونا۔ صفت
 (از اید) رجب رَقْدٌ وَرَقْدٌ۔ السونق: بازار کا مندر پڑنا
 _____ الحو: گرمی کم ہونا۔ عَنِ الْأَمْرِ: کام سے
 غافل ہونا _____ عَنِ ضَيْفِهِ: مہمان کی خبر گیری
 نہ کرنا _____ الفوب: پرانا ہونا۔
 اِرْقَدَ۔ سناناً اِرْقَدَ بِالْمَكَانِ: آقامت کرنا۔
 تَوَقَّدَ۔ سونا ہوا ظاہر کرنا _____ الْقَوْمَ عَلَى
 فَلَانٍ: قوم کا کسی کے خلاف مدد دینا۔
 اِرْقَدَ اِرْقَادًا۔ جلدی کرنا۔
 اِسْتَرَقَدَ نیند کا نالاب ہونا۔
 الرقدة۔ نیند۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْنا رَقْدَةٌ مِنْ
 الْحَوِّ" یعنی ہمارے اوپر دس دن کے برابر گرمی
 پڑی۔
 الرقدة و الرقود۔ بہت سونے والا۔
 الرقود۔ ہمیشہ سونے والا۔ کہا جاتا ہے "اِمْرَاةٌ
 رَقُودٌ الضحی" چاشت تک سونے والی۔ یعنی
 آسودہ حال عورت۔
 الرقدان۔ بکری کے بیٹے وغیرہ کی اچھل کود۔
 الرقود۔ بڑا منکا۔ رجب و رقود۔ ایک قسم کی چھوٹی
 مچھلی۔ ایک قسم کا پیانہ۔
 الرقید۔ ایک قسم کی چال۔ ترقید البینض:
 بچے نکالنے کے لیے مرغی کے نیچے انڈے رکھنا۔
 المرقد۔ خواب گاہ۔ رجب مرقد۔
 المرقد۔ خواب آور دو۔ واضح راستہ۔
 رَقْرَقَ۔ المَاءَ: چھڑکنا _____ العین: آنسو
 برانا _____ الخمر: پانی مانا _____ الطیب: لہن
 الفوب: خوشبو لگانا۔
 تَوَقَّرَقَ۔ المَاءَ: آہستہ آہستہ بہنا۔ چمکانا۔ آنا جانا

العین: آنسو مانا _____ الذمغ: آنسو
 کا آنکھ میں چکر کھانا۔ الشمس: آلتاب کا گھومتا
 ہوا معلوم ہوتا۔
 الرقراق۔ وہ جو چمکے۔ آئے جائے۔ من
 الذمغ: آنسو جو آنکھوں ہی میں پھر رہا ہو۔
 مِنَ السحاب: آنے جانے والا بادل۔
 الرقراق۔ سمندر یا وادی کا رقبہ پانی۔ باریک
 کپڑا۔ بہت آبدار کھوار۔
 رَقْرَقَ (ن) اِرْقَرًا۔ ناچنا _____ العزق: اچھلنا۔
 الرقاز۔ ناچنے والا۔
 رَقَشَهُ (ن) رَقَشًا۔ نقش کرنا _____
 الکلام: لکھنا۔ سمجھنا۔
 رَقَشَ۔ الکلام: لکھنا۔ سمجھنا۔ گھڑنا _____
 الصحیفۃ۔ سطریں کرنا _____ الرجل: عتاب
 کرنا _____ الرجل: چھل خوری کرنا۔
 تَوَقَّشَ۔ مزین ہونا۔
 اِرْقَشَ۔ حسن زینت ظاہر کرنا _____
 الجنیش: لڑائی میں گھم جانا۔
 الازقش۔ سفید و سیاہ چھیتوں والا۔ مؤنث
 رَقَشَاء۔
 الرقش و الرقشة۔ ایک قسم کا رنگ جس میں
 نیلا لہن اور سیاہی ہو۔
 الرقشَاء۔ مِنَ الحیات: جتنی دار سانپ۔
 ایک قسم کا کپڑا۔ اونٹ کے مستی کے وقت کے
 جھاگ۔
 رَقَصَ (ن) رَقَصًا۔ ناچنا۔ اضطراب کرنا
 التبیذ: جوش مارنا _____ فِي الْكَلَامِ:
 جلدی جلدی بولنا _____ رَقَصًا وَرَقَصًا وَ
 رَقَصَانًا الْجَمَلُ: اونٹ کا دوڑنا۔
 رَقَصَهُ وَرَقَصَهُ۔ نچانا۔ کہا جاتا ہے۔ "اِرْقَصَ
 الْقَوْمَ فِي سَبْرِهِمْ" جبکہ وہ اپنی چال میں کبھی
 بلند ہوں اور کبھی پست۔
 اِرْقَصَ۔ السبعز: بھاؤ گراں ہونا۔
 تَوَقَّصَ۔ الشئ: جلدی جلدی پست و بلند
 ہونا۔
 الرقاص۔ بہت ناچنے والا۔ اور اسی سے ہے
 رِقَاصُ السَّاعَةِ (گھڑی کا پنڈولم)
 الرقاصۃ۔ رقاص کا مؤنث۔ عربوں کے ایک

لینا۔
 رُکِضٌ - الفَرْضُ: دوڑایا جانا۔ صفت
 (مَرْكُوضٌ)
 رَاكِضَةٌ مَرَاكِضَةٌ: گھوڑا دوڑانے میں
 مقابلہ کرنا۔
 تَرَاكِضٌ - الْقَوْمُ: باہم دوڑانا۔
 إِزْكَضٌ - بِلْنَا: مضطرب ہونا
 الْحَبِيبُ: بیعت میں حرکت کرنا۔ الزَّجْلُ
 فِي أَمْرِهِ: اپنے معاملہ میں تصرف کرنا۔
 حَيَلَهُمُ الْيَهُ: دوڑانا۔ الْقَوْمُ فِي
 الْمَيْدَانِ: دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔
 الرُّكْضَةُ: حرکت۔ دھکا۔
 الرُّكُوضُ: تیز دوڑنے والا۔ قَوْسٌ رُكُوضٌ:
 جلدی تیز چھینکنے والی کمان۔
 المِرْكَاضُ: بہت دوڑنے والا۔
 المِرْكَاضُ: آگ سلگانے کی چیز۔ مِنْ
 الْقَوْسِ: کمان کا گوشہ۔ ج مَرَاكِضُ - مَرَاكِضُ
 الْحَوْضِ: حوض کے کنارے۔
 المِرْكَاضَةُ: کمان کا گوشہ۔ گھوڑا جو زمین پر اپنی
 ٹانگوں کو مارے۔ قَوْسٌ (مُرْكَاضَةٌ) جلدی تیز
 چھینکنے والی کمان۔
 رُكْعٌ (ف) رُكْعًا وَرُكُوعًا: سر جھکانا۔ پست۔
 ثم کرنا۔ إلی اللہ کے سامنے پست ہونا
 الزَّجْلُ: تو آگرمی کے بعد محتاج ہونا۔
 اوندھا ہونا یا پھسلنا۔
 رُكْعَةٌ وَرُكُوعٌ: جھکوانا۔
 الزَّكِيْعُ: نا۔ سر جھکانے والا۔ ج۔ زَاكِيْعُونَ وَ
 رُكْعٌ وَرُكُوعٌ:
 الرُّكْعَةُ وَالرُّكُوعَةُ: زمین کا گڑھا۔ الرُّكْعَةُ:
 رُكْعٌ كَأَسْمَرَةٍ:
 إِزْكَفٌ - الْفُلُجُ: برف گر کر جم جانا۔
 رُكْلُهُ (ن) زَكَوًا وَرُكْلُهُ: لات مارنا۔ ایز لگانا۔
 کہا جاتا ہے "رُكْلُ الْقَوْسِ" اس نے گھوڑے کو
 دوڑانے کے لیے ایز لگانی۔
 وَرُكْلَتِ الْعَيْلُ الْأَرْضُ: زمین پر ہم مارنا۔
 زَاكَلٌ: ضاجیہ: ایک دوسرے کو لات مارنا۔
 تَرَاكَلٌ - الْقَوْمُ: باہم لات مارنا۔
 تَرَاكَلٌ - الْخَافِضُ بِالْمِسْحَاةِ وَعَلَيْهَا: پاؤں

ہے "كَلَمَةٌ لَمَّا رَأَيْتَ لَهُ رُكْرَةً" میں نے اس
 سے گفتگو کی تو اس کے اندر میں نے محل کا کچھ
 حصہ نہیں دیکھا۔ الرُّكْرَةُ: چاندی یا سونے کا بڑا
 گڑھا۔ گھوڑا کا رخت جو بڑے اچھے لیا جائے۔
 الرُّكْرِيَّةُ: زمین کے ان روٹوں کے ہونے جو اہر
 ج رُكْرِيَّةٌ۔
 الرُّكْرَانُ: زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی
 دھاتیں۔ واحد (رُكْرَةٌ) ج رُكْرِيَّةٌ وَرُكْرَانٌ۔
 المِرْكَزُ: دائرہ کا وسطی نقطہ کہ جس سے دائرہ
 تک جتنے خط نکلیں باہم برابر ہوں۔ رہنے کی جگہ۔
 ج مَرَاكِرُ - مَرَاكِرُ الْأَسْتَانَ: دانت نکلنے کی
 جگہیں۔
 رُكْسٌ (ن) رُكْسًا - الشَّيْءُ: آٹھ دینا۔
 التَّبَعِيُّ: اونٹ پر رکاس باندھنا (دیکھئے لفظ
 رُكَّاسٌ)
 أَرُكْسَةٌ: اوندھا کرنا۔ الشَّيْءُ: پہلی
 حالت پر لوٹنا۔ النَّوْبُ فِي الصَّبْعِ:
 کپڑے کو دوبارہ رنگ میں ڈالنا۔
 الْحَارِيَّةُ: پستان اُبھرنا شروع ہونا۔
 تَرَاكْسٌ - الشُّهُو: بالوں کا تہہ ہونا۔
 إِزْكَكْسٌ: اوندھا ہونا۔ دوبارہ جلائے مصیبت
 ہونا۔ پھیر کرنا۔ اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔
 الرُّكْسُ: پلیدی۔ گندگی۔ مِنَ التَّنَاصِ:
 جماعت۔ گرنے کے بعد مرمت کی ہوئی عمارت۔
 پل۔
 الرُّكْسُ: وہ تیل جو کھلیان کے وسط میں ہو اور
 دوسرے تیل اس کے بعد ہوں۔
 الرُّكَّاسُ: رستی جو اونٹ کی مہار میں باندھ کر
 زانوں میں باندھ دیں۔
 الرُّكَّاسَةُ وَالرُّكَّاسَةُ: جو چیز زمین میں گاڑی
 جائے۔ جیسے "مخ" کیل وغیرہ۔
 الرُّكَّاسُ: اوندھا کیا ہوا۔ کزور۔
 رُكْضٌ (ن) رُكْضًا - رُوْرًا: پاؤں ہلانا۔
 ۵: دُفِعَ كَرًا۔ الْقَوْسُ بِرُجْلِيهِ: گھوڑے کو
 ایز لگانا۔ الظَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ: پرندہ کا جلدی
 سے پر پھڑ پھڑانا۔ مِنْهُ: جلدی سے بھاگنا۔
 النُّجُومُ: ستاروں کا چیلنا۔ الْقَوْسُ:
 تیر اندازی کرنا۔ الْأَرْضُ وَالنَّوْبُ: پیر سے

إِلَيْهِ: نائل ہونا۔
 أَرُكْحٌ - عَلَيَّهِ: سارا لینا۔ هَالِيَهُ: ٹیک
 لگانا۔ کہا جاتا ہے "أَرُكْحْتُ إِلَيْهِ ظَهْرِي" میں
 نے اس کی طرف اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائی۔
 تَرُكْحٌ: فِي الْمَعِيَشَةِ: حصول معیشت کے
 لیے تصرف کرنا۔ فِي الدَّارِ: فرامی و
 کشادگی کرنا۔ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
 ٹھہرنا۔
 الرُّكْحُ: پہاڑ کی نقل ہوئی لوک۔ پہاڑ کا گوشہ۔
 بنیاد۔ گھر کا صحن۔ ج رُكْحٌ - إِزْكَاحُ
 الإِزْكَاحِ: راہوں کے مکانات۔
 الرُّكْحَةُ: گھر کا صحن۔ ج رُكْحٌ -
 الرُّكْحَاءُ: سخت بلند زمین۔
 جَفْنَةٌ (مُرْتَكِبَةٌ) تُرِيدُ: ہمراہ ہوا یا پل۔
 رُكْدٌ (ن) رُكْدًا - الْمَاءُ أَوْ الرِّيحُ: ٹھہرنا۔
 المِيْرَانُ: ترازو کا برابر ہونا۔ عَصِيْرٌ
 الْعَبْثُ: جوش ٹھنڈا پڑنا۔ الْعَكْرُ
 وَالْفُفْلُ: تھمت بیٹھنا۔ الشَّمْسُ:
 بالکل سر پر آکر ٹھہر جانا۔ کہا جاتا ہے "رُكْدَتْ
 رِيْحُهُمْ" یعنی ان کی حکومت جاتی رہی۔
 الزَّاكِدُ: ف۔ ٹھہرا ہوا۔
 الرُّكُودُ: بھرا ہوا یا پل۔ ہمیشہ دودھ دینے والی
 اونٹنی۔
 الفُرَاكِدُ: ٹھہرنے کی جگہیں۔
 رُكْرُوكٌ - الشَّيْءُ: کزور ہونا۔ الزَّجْلُ:
 بزدل ہونا۔ کہا جاتا ہے "بِهْ رُكْرُوكٌ" وہ ہر چیز میں
 کزور ہے۔
 رُكْرٌ (ن) رُكْرًا - الرُّمْحُ وَنَحْوَهُ: زمین
 میں گاڑنا۔ دُفِنَ كَرًا۔ العِزْفُ: رگ کا
 حرکت کرنا۔
 رُكْرٌ - الرُّمْحُ: گاڑنا۔
 أَرُكْرٌ - الصُّغْلَانُ: روحات والا ہونا۔
 الزَّجْلُ: کان بانا۔
 إِزْكَرٌ - العِزْفُ: رگ کا حرکت کرنا۔
 الشَّيْءُ: اپنی جگہ میں برقرار رہنا۔ عَلَيَّ
 الْقَضَاءُ: لاٹھی پر سارا لینا۔
 الرُّكْرُ: دو جہمی آواز۔ آہٹ۔ دانا و فیاض آوی۔
 الرُّكْرَةُ: حزم۔ حکمت۔ ثبات۔ محل۔ کہا جاتا

<p>رکم۔ تَرَمَّمُ الشَّيْءُ: کسی چیز کی اصلاح و درستی کے درپے ہونا۔ الْعَظْمُ: ہڈی سے گوشت چھڑا لینا۔</p>	<p>المِزْكَنُ - لگن - کپڑے وغیرہ دھونے کا پتہ - ج مَزَاكِنُ - المَزْكَنُ: بڑا تھن - نَاقَةٌ مَزْكَنَةٌ: بڑے تھنوں والی اونٹنی۔</p>	<p>سے زمین میں دھنسا۔ تَرَكَتِ الْأَرْضُ: کھروں سے کھدا۔ الرِّكْلُ - گندا - و (الرِّكْلَانُ) گندا نافروش۔ الرِّكْلَةُ: رکھ کا اسم مرؤہ - ساگ کا گھٹا۔ المَزْكَلُ: راستہ - جانور کو اڑنے کی جگہ - ج مَزَاكِلُ - تم کہتے ہو "فَرَسٌ نَهْدُ الْمَزَاكِلِ" بڑے پہلوؤں والا گھوڑا۔</p>
<p>إِزْتَمَّتْ - البَهْنَمَةُ: چبائے کا مٹیوں کو منہ سے پکڑ کر کھانا۔ إِزْتَمَّتْ مَاعَلَى الْخَوَانِ کھا کر دستر خوان کلب کچھ صاف کر دینا۔</p>	<p>رَكَانُ (ن) زَكْوَا - الْأَرْضُ: کھودنا۔ الْحَوْضُ: حوض کو بنا کر تیار کرنا۔ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ الشَّيْءُ: باندھنا۔</p>	<p>المِزْكَلُ - سوار کا پیڑ - ج مَزَاكِلُ - رَكَمَ (ن) رَكَمًا الشَّيْءُ: بندہ کرنا - ڈھیر لگانا۔ تَرَكَمَ وَإِزْتَمَمَ - الشَّيْءُ: ڈھیر لگانا - کما جاتا ہے "تَرَكَمَ لِحَمِّ فَلَانٍ" یعنی فلاں موٹا ہو گیا۔ الرِّكْمُ: بندہ بادل۔ الرِّكْمَةُ: کچھ کا ڈھیر۔</p>
<p>اسْتَمَرَمَ - البِنَاءُ: عمارت کا قابل مرمت ہونا الرِّجْلُ: کسی چیز کی درستی کیلئے بلانا۔ الرِّمُّ: وہ اور کما جاتا ہے "مَالِحِي مِنْهُ حَمٌّ" وَلَا زَمُّ" مجھے اس سے چارہ نہیں یعنی یہ میرے لئے ضروری ہے۔ و "مَالَهُ حَمٌّ وَلَا زَمُّ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔</p>	<p>الْأَمْرُ: مؤخر کرنا۔ الْحَمْلُ عَلَى الْبَعِيضِ: بوجھ دو چند لانا۔ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا عَلَى فَلَانٍ بَرَأئِ بِيَانٍ کرنا۔ أَزْحَمِي إِزْكَاءً - الْأَرْضُ: کھودنا۔ الْحَوْضُ: حوض کو تیار کرنا۔ الْأَمْرُ: مؤخر کرنا۔ عَلَيْهِ: بَرَأئِ بِيَانٍ کرنا۔ إِلَيْهِ: پناہ لینا۔</p>	<p>الرِّكَامُ: بندہ بادل یا ریت وغیرہ کا ڈھیر۔ فَلْيَطْبِخْ زَكَامًا: بزار یوز۔ مُزَكِّمَةُ الظَّرْفِيقِ: شاہراہ۔ المَزْكُومُ - ضم - مَسْحَابٌ مَزْكُومٌ: بندہ بادل۔ نَاقَةٌ مَزْكُومَةٌ: موٹی اونٹنی۔</p>
<p>الرِّمُّ: سناک مٹی - گودا - کما جاتا ہے "جَاءَ بِالطَّبِخِ وَالرِّمِّ": وہ بڑی و بخری چیزیں یا سنگ و ترچیزیں یا مٹی و پانی یا بہت مال لے کر آیا۔ الرِّمُّ: غم - جماعت۔ الرِّمَاءُ مِنْ الْبِنَاجِ: سفید بھینڑ۔ الرِّمَّةُ: پرانی رشتی کا ٹکڑا۔ ج زَمَمَ اور کما جاتا ہے "أَعْطَاهُ الشَّيْءَ بِرِيمَتِهِ" اس نے اس کو سب کچھ دے دیا۔</p>	<p>لَهُمْ جُنْدًا: کسی کے لیے فوج تیار کرنا۔ زَاكِي - عَلَى الْأَمْرِ: کسی معاملہ پر بھروسہ و اعتماد کرنا۔ تَرَكَتِي وَإِزْتَمَمِي - عَلَيْهِ: کسی پر بھروسہ کرنا۔ اعتماد کرنا۔</p>	<p>زَكَنَ (ن) وَزَكِنَ (س) زَكُونًا - إِلَيْهِ: مائل ہونا۔ آرام لینا۔ اعتماد بھروسہ کرنا۔ زَكِنَ (ك) زَكَانَةٌ وَزَكُونَةٌ: صاحب وقار و سنجیدہ و ثابت قدم بنانا۔ أَزَكَنَ - إِلَيْهِ: بھروسہ کرنا۔ تَرَكَتِي - مضبوط و صاحب وقار ہونا۔ الرِّكْنُ: باعث تقویت - عزت و قوت وغلبہ۔</p>
<p>بہتر کار پر دوا و ماہر لڑکی ج زَمَمَ۔ حَبْلٌ (رِمَامٌ وَأَزْمَامٌ وَرِمَمٌ): پرانی و بوسیدہ رشتی۔ الرِّيمِمْ وَالرِّمَامُ: بوسیدہ۔ الرِّمَامَةُ: بقدر ضرورت گزارہ - کما جاتا ہے "إِكْتَفَى بِالرِّمَامَةِ" اس نے بقدر ضرورت گزارہ پر کفایت کی۔ الرِّمَمَةُ وَرِمَمَةُ: کھروار جانور کا ہونٹ۔ الرِّمَمَاتُ: مہینتیں۔ رَمًا (ف) رَمًا وَرَمُومًا: اقامت کرنا۔ الرِّمَمُ: گمان کرنا اور اندازہ کرنا وَأَزْمًا عَلَى الْعَمِيَةِ: زائد ہونا۔ أَرْمًا إِلَيْهِ: قریب ہونا۔ مَرَمَاتُ - الْأَخْبَارُ: جھوٹی خبریں۔</p>	<p>الرِّكْوَةُ: بتغلیت الزاء: چھوٹی ڈوگی - وہ برتن جو انگوڑ وغیرہ نچوڑتے وقت جمع ہونے کیلئے نیچے رکھیں۔ الرِّكْوَةُ: چھاگل ج رِکاء و زَكْوَاتُ - الرِّكْوَةُ: پانی والا کنواں - ج زَكَايَا وَرَكِي - المَزْكِي وَالمَزَاكِي: ہمیشہ رہنے والا۔ المَزْكُومُ: کوئیں کا چوچہ - بڑا حوش۔ الرِّكْمِي: ضعیف و ست۔</p>	<p>بڑا معاملہ۔ مِنْ الشَّيْءِ: جز - ہر چیز کا فوی کنارہ - کما جاتا ہے "فَلَانٌ زَكِنٌ مِنْ أَزْكَانِ فَرَسِهِ" فلاں اپنی قوم کے اشراف میں ایک شریف ہے۔ زَكِنٌ الرِّجْلُ: آدمی کی قوم - ج أَزْكَانٌ وَأَزْكِنٌ - الْأَزْكَانُ: اجسام سیدہ جن سے ماویات کی ترکیب ہوتی ہے اور قدماء کے زویکسہ چار ہیں۔ آگ پانی ہو اور مٹی۔ الرِّكْنُ: چوہا - جنگلی چوہا۔ الرِّكْنُ: ثابت قدم - سنجیدہ - بادقار۔ الرِّكْنُ مِنْ الْجِبَالِ: بلند اطراف والا پہاڑ۔ الرِّكْنُ: چوہا - جنگلی چوہا۔ الرِّكْنُ: رئیس - بلاسکان - ج أَرْكَانَةٌ (كلہ یونانی ہے)۔</p>
<p>رَمَمَ - البِنَاءُ: عمارت کی مرمت کرنا۔ درست رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>
<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>
<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>
<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>
<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>
<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>
<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>	<p>رَمَمَ (ن) رَمًا وَرَمَمَةً - البِنَاءُ أَوْ الْأَمْرُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔ السَّهْمُ بِعَيْنِهِ: تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا۔ البَهْنَمَةُ: چبائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا الشَّيْءُ: کھانا۔</p>

رَمَتْهُ (ن) رَمَتْهُ - درست کرنا۔ ہاتھ سے پونچھنا۔ چرانا۔ الشئ بالشئ: ملانا۔ خلوط کرنا۔
رَمَتْ (س) رَمَتْهُ: اَلْبَجِيضُ: رَمَتْ رِخْتِ كَعِ
چوڑے کھانے سے بیمار ہونا۔ اَمْرُهُمْ: گڈمڈ
ہونا۔ خلوط ہونا۔

رَمَتْ عَلَى الْمَاءِ: زائد ہونا۔ () و
اَزَمَتْ: الْحَالِبُ فِي الصَّرْعِ: تھن میں کچھ
دودھ چھوڑ دینا۔

اَزَمَتْ وَاسْتَزَمَتْ: فِي مَالِهِ: باقی رکھنا۔
اَزَمَتْ الشئ: نرم کرنا۔

الرْمَتْ: غَسَا كَعِ شَبَابٍ: ایک درخت کا نام۔
ایک قسم کی شور و تلخ گھاس جس کو اونٹ چرتے
ہیں۔ پراسے کپڑوں والا مرد۔ کمزور پیٹھ والا۔

الرْمَتْ: تھن کا بقیہ دودھ۔ دریا کے عبور
کرنے کے لیے لکڑیوں کا تختہ۔ زیادتی۔ فضیلت۔

کما جاتا ہے۔ اِفْلَانٍ عَلَى فُلَانٍ رَمَتْ: فلاں کو
فلاں پر فضیلت ہے۔ پرانی رستی۔ جِ رَمَتْ اَزْمَاتٍ و
رَمَاتٍ: اور کما جاتا ہے۔ "خَبَلٌ اَزْمَاتٌ" پرانی

رستی۔
الرْمَقَةُ: دھونے کے بعد تھن کا بقیہ دودھ۔
الرْمَقَاءُ وَالرْمَقَةُ: رَمَتْ گھاس اگلنے والی

زمین۔
الرْمَاةُ: مادہ نیکل گائے۔

رَمِحَ (ن) اَزْمَحًا: الطَّائِرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔
رَمِحَ: الْكَاتِبُ: لکھنے کے بعد خراب کرنا۔

رَمِيحٌ: فَا: پرندہ جس کو چال میں پانہ دیتے
ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے شکاری پرندوں کا

شکار کریں یا لو کہ اُس کے پر پانہ دیتے ہیں
تاکہ اس کے ذریعہ سے باز کا شکار کریں۔

الرْمَاحُ: نِيْزَةٍ: کی گریں اور پورے۔
رَمِحَ (ف) رَمِحًا: نِيْزَةً: مارنا۔ رَمِحْتُهُ
الذَّابَةَ: جانور کالات مارنا۔ رَمِحَ التَّبِيْزُ: کھلی کا

اہست اہست پھلنا۔
رَمِحُوا: بِاَهْمٍ نِيْزَةً: بازی کرنا۔
تَوَامِحُ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو نیرہ مارنا۔

الرْمَحُ: نِيْزَةٌ: جِ رَمَاحٍ وَ اَزْمَاحٍ: کما جاتا ہے
"مَكْسَرًا وَ اِيْنَهُمْ رَمِحًا" یعنی ان کے درمیان
شرو و نساہ واقع ہو گیا۔ و "رَمِيْنَا يَوْمَ كَطَلٍ

الرْمَحُ" یعنی ہم ایسے دن میں پھس گئے جو لمبا تھا
اور تنگ تھا۔ و "هَمَّ عَلَى نَبِيْ فُلَانٍ كَرْمَحٍ
وَ اَجِدُ" وہ لوگ بنی فلاں کے خلاف مانند جماعت
واحدہ کے ہیں۔ "وَ اَخَذَتْ الْاِبْنُ رَمَاحَهَا" یعنی
اونٹیاں موٹی ہو گئیں یا دودھ دینے لگیں اور ان
وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو زخ ہونے سے
بچالیا۔ الرْمَحُ: قَرُوفاةٌ۔

الرْمَاحُ: نِيْزَةٌ: (اس معنی میں فاعل ذی کذا
ہے اور اس کے لیے فعل نہیں)

تَوَزَّ رَمِحٌ: سِيْغُوں وَالْاَبْلُ: السَّمَاكُ الرْمَاحُ:
ایک ستارہ کا نام۔

الرْمَاحُ: نِيْزَةٌ: نِيْزَةً: نِيْزَةً: نِيْزَةً: نِيْزَةً:
الرْمَاحَةُ مِنَ الْقَيْسِي: زور سے نیرہ پھینکنے والی
کمان۔

الرْمَاحَةُ: نِيْزَةٌ: نِيْزَةً:
ذَابَةٌ (رَمَاحَةٌ وَ رَمُوْحٌ) بہت کائے والا جانور۔
رَمَاحُ: الْجَنِّي: طاعون۔

الرْمَاحِي: رَمِيحٌ: رَمِيحٌ: رَمِيحٌ:
اَزْمَعُ: الرَّمِيحُ: نِزَمٌ وَ نَالٌ: ہونا۔

اَزْمَعَتِ الذَّابَةَ: چوپائے کے دانت لگانا۔ مونا
ہونا۔

الرْمِيحُ: بہت سے درخت جو آپس میں گتے
ہوئے ہوں۔

رَمَدَ (ض) اَزْمَدًا وَ رَمَدًا: سردی سے ہلاک
ہونا۔ (ض) اَزْمَدًا: الْقَوْمُ: قوم پر پہنچ کر ہلاک
کر دینا۔

رَمَدَتْ (س) اَزْمَدًا: الْعَيْنُ: آنکھ دکھنا
الرْمَدُ: اَشْوَبٌ: چشم والا ہونا۔ رَمَدَ عَيْشُ
الْقَوْمِ: ہلاک ہونا۔

رَمَدَ: الشئ: راکھ میں ڈالنا۔ رَمَدَتِ النَّاقَةُ:
تھن والی ہونا۔

اَزْمَدَ: رَمَحًا: ہونا۔ الْقَوْمُ: قتل و خشک
سالی میں پڑنا۔ قوم کے مویشیوں کا ہلاک ہونا۔

رَمَدَ: الْعَيْنُ: جِ لَانِ اَشْوَبٌ: چشم کرنا۔ اَزْمَدَةُ:
راکھ جیسا کر دینا۔ ہلاک کر دینا۔

اَزْمَدَ: الشئ: خاستری رنگ کا ہونا۔
رَمَدَ: الْعَيْنُ: آنکھ دکھنا۔ فُلَانٌ: شتر مرغ
کی طرح دوڑنا۔

الرْمَدُ: اَشْوَبٌ: چشم۔ آنکھ کا دکھنا۔ ہر وہ چیز جو
آنکھ کے لیے تکلیف دہ ہو۔

الرْمَدُ: اَشْوَبٌ: چشم والا۔ مِنَ الْجِنَاةِ:
حقیربانی۔ مِنَ الْجِنَابِ: میلا کچلا کپڑا۔
مَوْنَتٌ رَمَدَةٌ۔

الرْمَدُ: اَشْوَبٌ: چشم والا۔ خاستری رنگ کا۔
قُوْبٌ اَزْمَدٌ: میلا کچلا کپڑا۔ مَوْنَتٌ رَمَدَاءُ۔
الرْمَدَاءُ: شتر مرغ۔ جِ رَمَدٌ۔

الرْمَدُ: راکھ۔ جِ اَزْمَدَةٌ: اور عرب کا قول "هُوَ
يَنْفَعُ فِي رَمَادٍ" مثال ہے اور اس شخص کے
حق میں بولتے ہیں جو بے فائدہ کام کرے۔

الرْمَادَةُ: ہلاکت۔
الرْمَدَةُ: تھوڑی سی چیز۔
الرْمَدَةُ: خاستری رنگ۔

الرْمَادِي: خاستری رنگ کا۔
الرْمَدَاءُ: اَزْمَدَاءُ: خاستری راکھ۔
الرْمَدُ: اَشْوَبٌ: چشم والا۔

الرْمَدُ: گرم راکھ میں بھوننا ہونا۔
رَمَزَمَ: حالت درست کرنا۔
تَوَمَزَمَ: تنگو کیلئے ہونٹ ہلا کر رہ جانا۔

رَمَزَ (ن) اَزْمَزًا: اَلْيَبِي: اشارہ کرنا۔
ہ بگڈا: برا لگینے کرنا۔ مِنَ الْقِيْزَةِ:
مکھ بھرنا۔

رَمَزَ (ن) اَزْمَزًا: الْعَطِي: ہرن کا چھلانگ
مارنا۔ غَمَمَةٌ: ایک چرواہے سے ناراض
ہو کر کھریوں کو دوسرے کے سپرد کرنا۔

رَمَزَ (ك) اَزْمَزَةً: بہت حرکت کرنا۔ مَحْمَدٌ
ہونا۔ بزرگ و شریف ہونا۔

رَمَزَ وَ اَزْمَزَ: تيار ہونا۔ مِنَ
الضَّرْبَةِ: مار سے تھلا اُلْمَا: الْقَوْمُ:
اٹھنے کے لیے یا خصومت کے لیے اپنی جگہ ہی پر
کھلنا۔

اَزْمَزَ اَزْمَزًا: الرَّمِيحُ: جگہ سے ہٹنا۔ جگہ
سے چنے رہنا (ضد) متبعض ہونا۔ متحرک ہونا۔

تَوَامَزَ: الْقَوْمُ: ہر ایک کا دوسرے کی جانب
اشارہ کرنا۔ کما جاتا ہے "وَذَخَلْتُ عَلَيْهِمْ
فَقَتَعْنَا مَوَازِيَهُمْ اَزْمَزًا" میں ان کے پاس گیا تو وہ
آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔

الزَّمْزَمُ وَالزَّمْزَمِيُّ وَالزَّمْزَمِيُّ - اشاره - ج زَمْزَمٌ - الزَّمْزَمِيُّ - کرم و معظم - اصل - محمد - بہت حرکت کرنے والا - کہا جاتا ہے "زَجَلٌ زَمْزَمِيُّ الْفَوَائِدُ" تنگ دل مرد - الزَّمْزَمَةُ - دیر - زامیہ - رندی - بڑا فکر - التَّوَامِزُ - مِنَ الْإِبِلِ - پوری قوت والا اونٹ - اِبِلٌ (مَرَاهِيضٌ) بہت حرکت کرنے والا اونٹ - الزَّمْزَمِيُّ - سندر - اصل - نمونہ - ج زَوَائِجُ - الزَّمْزَمِيُّ - چٹری - زَمْسَةٌ (ض ن) زَمْسًا - ڈھانچا - دفن کرنا - الْعَجَبِيُّ - چھانا - الْقَبْرِيُّ - قبر پر مٹی ہموار کرنا - بِالْحَجَرِ - کسی پر پتھر پھینکا - صفت مَعُولِي (زَمِيْسٌ وَمَزْمُوْسٌ) آزَمَسَ - الْعَمِيْتُ - دفن کرنا - إِزْمَمَسَ - فِي الْمَاءِ - پانی میں ڈوبا - الزَّمْسُ - مٹی - قبر جو سطح زمین سے بلند ہو - قَبْرٌ مِثْلِي - بہت آواز - ج زَمْزَمُوسٌ وَزَمَامَسُ - الزَّوَامِسُ - رات میں اُڑنے والے پرندے - ہر جالور جو رات کو نکلے - واحد (زَامِسٌ) (وَالزَّوَامِسَاتُ) نشانات کو مٹا دینے والی ہوائیں - الزَّوَامِسُ - قبر - ج زَوَامِيْسُ - الْقَرْمِيْسُ - چٹری جگہ - زَمْسٌ (ن ض) زَمْسًا - الشَّيْءُ - انگلیوں سے پکڑنا - زَمَسْتُ الْعَنْمَ - بکریوں کا تھوڑا چرنا - بِالْحَجَرِ - کسی کو پتھر مارنا - ہ پیدہ ہاتھ سے چھونا - آزَمَسَ - الشَّجَرُ - درخت پر پتے آنا - چلدار ہونا - الزَّمْلُ - کزوری و سستی سے کسی چیز کی طرف بہت دیکھنا - فِي الدَّمْعِ - تھوڑے آنسو ہانا - الزَّمْسُ - پلکوں کی سرخی سیلان آب کے ساتھ - پلک کے بالوں کا آپس میں چسٹ جانا - الزَّمْسُ - نوجوانوں کے ناخن کی سفیدی - الزَّمْسُ - مہ - پھولوں کا دست - زَمْسٌ الْعَيْنِ - پلک

الْأَزْمَشُ - خوبصورت بناوٹ والا - مَوْثُ زَمْسَاءُ - ج زَمْسٌ (وَالْمَوْثَمُشُ) چند مٹی آنکھوں والا - الْأَزْمَشُ - مختلف رنگوں والا - أَرْضٌ (زَمْسَاءُ) بہت گھاس والی زمین - تنگ بے گھاس کی زمین (ضد) الجَمْرَمَاشُ - دیکھتے وقت آنکھوں کو بہت پھرانے والا - ج مَرَاهِيضُ - زَمْسٌ (ن) زَمْسًا - اللَّهُ مُصِيبَةٌ - مصیبت کو دفع کرنا - دور کرنا - يَنْفَعُهُمْ - صلح کرنا - الشَّيْءُ - شُؤْنَا - إِلَيْهِ - کسی طرف بہت نگاہ سے دیکھنا - الدَّجَاجَةُ - بیٹ کرنا - صفت (زَمْوُوسٌ) - السَّبَاعُ - بچہ جننا - کہا جاتا ہے "فَتَبَّحَّ اللَّهُ أَمَارَ مَصَّتْ بِهِ" بڑا کرے اللہ اس ماں کے لیے جس نے اس کو جننا ہے - زَمَصَّتْ (س) زَمَصًا - عَيْثُهُ - بچہ رہنا - صفت مَر (أَزْمَصُ) صفت مَوْثُ (زَمْسَاءُ) ج زَمَصٌ - زَمِصُ الزَّجَلُ - بچہ بہتی ہوئی آنکھوں والا ہونا - الزَّمِصُ - مہ - آنکھ کا کچھڑ - زَمِصٌ (س) زَمَصًا - النِّهَازُ - دن کا سخت گرم ہونا - الشَّمْسُ - ریت و پیرہ پر سخت دھوپ پڑنا - الزَّمْلُ - گرم زمین سے پاؤں جلنا - الطَّائِرُ - پیاس کی تیزی سے پرندہ کے جوف کا گرم ہونا - عَيْثُهُ - گرم ہو کر جل اٹھنا - لِلْأَمْرِ - غَمَّةً سے جل اٹھنا - زَمِصٌ (ن ض) زَمِصًا - التَّصَلُّ - باریک ہونے کیلئے دو ہموار پتھروں کے درمیان رکھ کر کوشا (وَمَزْمُوسٌ وَارْمِصٌ) الْعَنْمُ - گرم زمین میں چرانا - وَزَمِصُ الصُّومِ - روزہ کی نیت کرنا - زَمِصُ الزَّمْلُ - کچھ انتظار کر کے چلا جانا - وَارْمِصُ الشَّيْءِ - جلانا - أَرْمِصُ الزَّمْلُ - تکلیف پہنچانا - دُكُ - دیکھنا - أَرْمِصُ الْحَوْءِ الْقَوْمُ - گرمی تیز ہونے سے تکلیف پہنچانا - الْأَمْرُ فَلَانًا - غَمَّةً سے جلانا - تَوَمِصٌ - الصَّيْدُ - سخت گرم جگہ میں شکار کرنا - تَوَمِصَتْ نَفْسُهُ - جی مٹلانا - إِزْمَمَصُ - مِنَ الْحَزَنِ - غم سے جل اٹھنا

فَلَانِي - کسی کے لیے غمگین ہونا - كَيْدُهُ - خراب ہونا - الْفَرَسُ بِهِ - کودنا - الزَّمِصُ - مہ - گرمی کی جلن - خریف سے پہلے کی بارش جو گرم زمین پر ہو - الزَّمِصِيُّ - مِنَ السَّحَابِ وَالْمَطَرِ - گرمی کے آخر اور خریف کی ابتداء کی بارش یا بادل - زَمِصَانٌ - قمری مبینوں کا نواں مینہ - ج زَمِصَانَاتٌ وَزَمِصِيْنٌ وَأَرْمِصَاءٌ وَأَرْمِصَةٌ - الزَّمِصَاءُ - گرمی کی تیزی - دھوپ کی تیزی کی وجہ سے گرم زمین - الزَّمِصَاءَةُ - ہرجی کی تیزی - الزَمِصُ وَالزَّمِصِيَّةُ - مِنَ الْبِضَالِ - تیز بھالا - زَمِظَةٌ (ض) زَمِظًا - عیب لگانا - طعن و تشنیع کرنا - زَمِعَ (ف) زَمِعَانًا - أَنْفُهُ - غمٹہ یا بڑھاپے کی وجہ سے کانچا - صفت (زَمِيعٌ) - عَيْنُهُ بِالذَّمْعِ - آنسو ہانا - پیدہ ہاتھ سے اشارہ کرنا - زَامَسَةٌ - سر ہلانا - زَمَعَتِ الْمَرْأَةُ بِالصَّبِيِّ - عورت کا بچہ جننا (وَمَعَاوَرُ مَعَاوَنًا) الزَّمْلُ - تیز چلنا - رُوحٌ وَأَرْحٌ - السَّاقِي - شراب پلانے والے کی پیٹھ یا پیٹ میں درد ہونا - زَمَعَتِ الْمَرْأَةُ بِالصَّبِيِّ - عورت کا بچہ جننا - تَوَمِيعٌ - غمٹہ سے کانچا - الزَمَاعُ - فَا - سر کو جھکا کر اٹھانے والا - الزَّمْعَةُ - کلاوا - کہا جاتا ہے "زَمْعَةٌ مِنَ نَبْتٍ" گھاس کا ایک قطعہ - الزَّمَاعَةُ - دیر - بچہ کا تالو جو حرکت کرتا رہتا ہے - التَّيْمَعُ - پھر کی - سفید چمکتی ہوئی نکلیاں جو توڑنے سے ٹوٹ جائیں - ج زَمَاعٌ - کہا جاتا ہے "فَوَرَكْتُهُ يَنْفُتُ التَّيْمَعُ" میں نے اس کو نکلیاں توڑتے ہوئے چھوڑا - یعنی وہ معوم و شکستہ دل تھا - الْمَوْمِعَةُ - بیابان - کہا جاتا ہے "أَفِي بِمَوْمِعَاتِ الْأَخْبَارِ" وہ جھوٹی خبریں لایا - الزَّمَاعُ - سالی کی پیٹھ کا ورد جس کی وجہ سے وہ

زَمَانَةٌ مَرَامَةٌ وَرَمَاءٌ وَرَمَاءَةٌ: ایک دوسرے کو رخ کرنا۔ ایک دوسرے پر تیر پھینکنا۔ رَمَى عَنِ قَوْضِهِ: تیر اندازی کرنا۔

تَرَامَى تَرَامِيًا: القَوْضُ: بعض کا بعض پر تیز اندازی کرنا اور پتھراؤ کرنا۔ الأَمْرُ: تاخیر ہونا۔

السَّحَابُ: بعض کا بعض سے مل جانا۔ تَرَامَتْ بِهِ البِلَادُ: وطن سے دور کرنا۔ تَرَامَى الشَّمْسُ: لگاتار ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا زَالَ الشَّمْسُ يَتَرَامَى بَيْنَهُمْ" شران کے درمیان لگاتار ہوتا رہا۔ "وَتَرَامَى أَمْرُهُ إِلَى الظُّفْرِ أَوِ الخُدْلَانِ" اس کا معاملہ کامیابی یا ناکامی کی طرف پہنچ گیا۔

إِزْتَمَى إِزْتِمَاءً: پھینکا جانا۔ کہا جاتا ہے "زَمَاهُ فَارْتَمَى" اس نے اسے پھینکا وہ پھینکا گیا۔ الضَّمِيدُ: شکار پر تیر مارنا۔ إِزْتَمَتْ بِهِ البِلَادُ: وطن سے دور کر دینا۔ إِزْتَمِيًا: ایک کا دوسرے پر تیر پھینکنا۔

تَرَمَى: تیر پھینکنا اور شکار کرنا۔ الرَّمَى: پتھر پھینکنے کی آواز۔ الرَّمَاءُ: زیادتی۔ ریوا۔ سو۔

الرَّمِيَّةُ: زیادتی "فِي هَذَا رَمِيَّةٌ عَمَّا قَبِلَ لِي" جو کچھ مجھ سے کہا گیا ہے اس سے اس میں زیادتی ہے۔ و"هُوَ صَاحِبُ رَمِيَّةٍ" وہ باتوں میں زیادتی کرنے والا ہے۔ رَمَى كَأَسْمِ مَرَّةٍ أَرَعِبَ كَأَقُولُ "رَمِيَّةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ" مثال ہے اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو غلط کار ہو اور اتفاقاً کوئی صحیح کام کرے۔

الرَّمَايُ: فـاجِزَمَاءَةٌ وَرَمَائُونُ: ایک ستارہ کا نام۔

الرَّمِيَّةُ: سخت بارش برسائے والا بادل۔ رَجِ أَرَمَاءَةٌ أَوْ رَمِيَّةٌ وَرَمَايَا: الرَّمِيَّةُ: شکار جس پر تیر پھینکا جائے۔ رَجِ رَمَايَا: الجِمْزِيُّ: تیر پھینکنے کا آلہ۔ رَجِ رَمَايَا: الجِمْزِمَاءَةُ: چھوٹا زکروز تیر کھر۔

الرَّمِيَّةُ: مصدر رمى۔ تیر پھینکنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الكَلَامُ رَمِيَّةٌ الرَّمَايِيَّةُ" یہ کلام دور رس ہے۔ "وَمَا بَعْدَ رَمِيَّةٍ هَيْبَةٍ" اس کی ہمت کا میدان کتنا وسیع ہے "وَلَهُ هَيْبَةٌ قَبِيصَةٌ"

الرَّمِيَّةُ: اس کی ہمت دور تک پہنچنے والی ہے۔ رَمَى (ض) رَمِيًّا وَرَمَى: رونے میں آواز بلند کرنا۔ فریاد کرنا۔ رَمَى وَرَمَى إِلَيْهِ: کان لگانا۔ رَمَى وَرَمَى القَوْضُ: آواز کرنا (رَمَى وَرَمَى وَاسْتَوَى) لِكَذَا: کھیل کود کرنا۔

رَمَى القَوْضُ: آواز لگانا (رَمَى تَرَمِيًّا وَ تَرَمِيَّةً)۔

الرَّمِيَّةُ: آواز مطلقاً مکان وغیرہ کی آواز کے لئے خاص ہے۔

الرَّمِيَّةُ: آواز مطلقاً غمگین آواز۔

الرَّمِيَّةُ: تھوڑا پانی۔ ایک جانور جو گرمی کے زمانہ میں راتا ہے۔

قَوْضُ (مُرِيَّةٌ وَ مَرْمَانُ): ہمت آواز کرنے والی مکان۔

الرَّمِيَّةُ: تمام مخلوق۔ ماہِ جَمَادَى الاخرى کا نام اس معنی میں اس پر الف لام نہیں آتا۔

رَمَى (ف) رَمَى: آواز کرنا۔ إِلَيْهِ: دیکھنا۔

فِي مَشِيئَتِهِ: اگر تیار چلنا۔

الأَزْمَتُ: خرگوش۔ (یہ بزدلی کے لیے ضرب المثل ہے) ایک قسم کا زیور۔ رَجِ أَرَمَانِ (رَمَى وَ الرَّمِيَّةُ) چھوٹی دم کا ایک قسم کا جنگلی چوہا۔

الأَزْمَتَةُ: أَرَمَانُ: ناک کا بانسہ۔ "جَدَعَ فُلَانٌ أَرْمَتَهُ فُلَانٌ" فُلَانُ نے فُلَانِ کی ناک کاٹ لی۔ یعنی اہانت کی۔ رَجِ أَرَمَانِ۔

نَسِيحٌ (مُؤَزْمَتٌ وَ مَرْمَتٌ): خرگوش کے بال ملا کر بنا ہوا۔

أَرَضُ (مَرْمِيَّةٌ وَ مَرْمِيَّةٌ وَ مَرْمِيَّةٌ): ہمت خرگوش والی زمین۔

الرَّمَايَجُ: سیاہ پگھلا کر کھجور۔ اِخْرُوثُ۔

رَمَى وَرَمَى تَرَمِيًّا: تیر پھینکا۔ تَرَمَى: الرَّمِيَّةُ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے "مَرْمَتُهُ حَقِيٌّ وَرَمِيَّتُهُ" میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس پر بیوشی طاری ہو گئی۔

رَمَى: عَلِيَّةٌ: غشی طاری ہونا۔ فرار یا خوف یا غم کی وجہ سے سست و زکروز ہو کر جھک پڑنا۔ صفت (مَرْمِيَّةٌ)

تَرَمَى وَرَمَى: نشہ وغیرہ کی وجہ سے جھکانا۔ عَلِيَّةٌ: زکروز برتری ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے

"تَرَمَى بِالكَلَامِ عَلَيَّ جَهْلًا" اس نے جملات کی وجہ سے میرے اوپر فخر کا مظاہر کیا۔

الرَّمَى: چکر۔ دورانی سفر۔

الرَّمِيَّةُ: جہاز کا گلا حصہ۔

رَمَى (ن) رَمَى: سست ہونا۔

رَمَى: خوار و ذلیل ہونا۔

تَرَمَى: خوار و ذلیل ہونا۔ یہ: کسی چیز سے لگ جانا۔

الرَّمَى: ایک قسم کی خوشبودار جنگلی گھاس جو آس کے مشابہ ہوتی ہے۔ کھجور کی پتیوں سے بنی ہوتی چھوٹی گول۔

الرَّمَى: حوالہ۔

رَمَى (ف) رَمَى: دلا دلا کر ہونا۔ لَوْنُهُ: رنگ کا متغیر ہونا۔ الذَّبَابَةُ: جانور کا سر بلا کر کھسی اڑانا۔ الرَّمَى: کھیلنا۔

رَمَى: رَمَى: حرکت دینا۔

الرَّمِيَّةُ: کھیل کود کی آواز۔ وسعت باغ۔

ارزانی و فراخ سالی۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ فِي الرَّمِيَّةِ لِكُلِّ قَوْمٍ مَفْتَنَةً" ارزانی اور فراخی سال میں ہر قوم کے لیے آسودگی ہے۔

أَرَمَى: الرَّمَى: تیز چلنا۔ البَحِيرُ: اونٹ کا سر ہلاتے ہوئے چلنا۔ التَّقَاةُ: بَأْدَانِيَّتُهَا: اونٹنی کا تھکن کی وجہ سے کان ڈھیلا کرنا۔

الرَّمَايَةُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر ایک چیز کا کنارہ۔ الرَّمَايَةُ: ناک کا کنارہ۔ کان کی نرم پٹی کا کنارہ۔ چوڑا کاوہ حصہ جو بیٹھے میں زمین سے لگے۔

مِنْ الكَمِّ: آستین کا کنارہ۔ رَجِ رَمَايَةِ اور کہا جاتا ہے "عَلَوُ رَمَايَةِ الاكَامِ" وہ ٹیلوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔

رَمَى (ن) رَمَى وَرَمَى وَرَمَى (س) وَرَمَى: المَاءُ: پانی کا گدلا ہونا۔ صفت (رَمَى وَرَمَى وَرَمَى)

رَمَى: المَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ الرَّمَى: القَوْمُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔ الرَّمَى: پرنہ کا بغیر اڑنے کے پر پڑ پڑنا۔

الرَّمَى: فِي عَيْنِي: آنکھوں میں نینو بھرا ہوا۔

جَنَاحُ الطَّائِرِ : بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا
 کرنا عَيْنَاهُ : بھوک وغیرہ سے نگاہ کا
 پست ہونا جَسْمُهُ اور زَانِيَةٌ : کمزور ہونا
 السَّفِينَةُ : کشتی کا اپنی جگہ پر گھومنا
 الزَّوْجَلُ : حیران ہونا۔
 الصَّبِيَّةُ مَيَّةٌ : موت قریب ہونا اور کہا جاتا
 ہے ”رَبِّقٌ وَلَا تَعْجَلْ“ یعنی ٹھہرو انتظار کرو
 جلدی مت کرو النَّظَرُ إِلَيْهِ : دیر تک
 دیکھنا۔
 أَرْزَقَ : المَاءَ : پانی گدلا کرنا اللِّوَاءُ :
 حملہ کرنے کے لیے جھنڈا ہلانا اللِّوَاءُ :
 جھنڈے کا پلٹا۔
 تَوَلَّقَ : المَاءَ : پانی کا گدلا ہونا۔
 الزَّنْفُ : مہ۔ جھوٹ۔
 الزَّنْفَاءُ : مِنَ الطَّيْرِ : انڈے سینے والا پرندہ۔
 عوام اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ أَرْضٌ زَنْفَاءٌ : بجز
 زمین۔ جَزَنْفَاوَاتٍ۔
 الزَّنْفَةُ : بچھڑا ہوا پانی۔ حوض کا بقیہ گدلا پانی۔
 جَزَنْفَانِقٌ (یہ رنائن کا مطلب ہے)
 الزُّوْفُ : چمک۔ دک۔ خوبصورتی۔
 التَّرْوُوقُ وَالتَّرْوُوقُ وَالتَّرْوُوقَاءُ : شروں کا
 کچھڑ سیلاب کے بننے کی جگہ جبکہ پانی خشک ہو چکا
 ہو۔
 زَنْمٌ (س) زَنْمًا وَزَنْمٌ وَتَرَنْمٌ : خوش آوازی
 سے گانا۔
 الزَّنْمُ وَالتَّرَنْمَةُ : ایک قسم کی نباتات۔
 الزَّنْمُ : گانے والی عورتیں۔ خوش الحانی سے
 گانے والیاں۔ ہو شیار لوتھڑیاں۔ اور کہا جاتا ہے
 ”مُؤَدِّ زَنْمٌ“ بچنے والا بربط۔
 زَنْانٌ (زَنْانٌ) زَنْانٌ وَزَنْانٌ : تھلکی یا تاندھ کر
 دیکھنا الزَّوْجَلُ : مشغولی قلب کے ساتھ
 طرب اور کھیل کود میں ہونا (وَتَرَانِي)
 عَنَّهُ : غفلت برتنا۔
 زَنْتِي تَزِينَةٌ : گانا اللہ : مشتاق ہونا۔
 (وَأَرْزَى) الْحَسَنُ فَلَانًا : تعجب میں ڈالنا
 اور دیکھنے پر برا بھلا کرنا۔ أَرْزَاهُ إِلَى الطَّاعَةِ :
 کسی کو طاعت پر متوجہ کرنا اور اس کا طاعت پر
 مداومت کرنا۔

زَانَاهُ : سلوک کرنا۔ مقابلہ کرنا جیسے ”لَعَشْرَفٌ
 يَرَانِي الْكُفْرَ أَكْبَرُ“ یعنی اسے ایسی شرافت حاصل
 ہے جو لوگوں کی نظر کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں
 ستاروں سے مقابلہ کرتی ہے۔
 تَرَنْمِي : محبوب کی طرف لگانا دیکھنا۔
 الزَّنَاءُ : مہ۔ وہ چیز جس کی طرف خوبصورت
 ہونے کی وجہ سے دیر تک دیکھیں۔
 الزَّنَاءُ : خوبصورتی۔
 الزَّنَاءُ : اچھی آواز۔ طرب۔
 الزَّنَاءُ وَالتَّرْوُوقُ : دل پسند و خوبصورت چیز کی
 طرف دیر تک دیکھنے والا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ زَنْوُ
 الْأَمَانِي“ وہ مہ سی آرزوؤں کی توقع کرتا ہے۔
 زَهَبٌ (س) زَهْبَةٌ وَزَهْبَانٌ وَزَهْبَانٌ وَزَهْبَانٌ
 وَزَهْبَانًا وَزَهْبَانًا : خوف کرنا۔ کہا جاتا ہے ”لَمْ
 أَرْهَبْ بَلًا“
 زَهَبٌ : الْجَمَلُ : اٹھنے لگانا پھر کمزوری کی وجہ
 سے بیٹھ جانا۔ زَهَبَتِ النَّاقَةُ : سڑکی وجہ سے ٹھکنا۔
 صفت مذکر مؤنث (زَهَبٌ) جَزَهَابٌ۔
 أَرْهَبٌ : ٹھکے ہوئے اونٹ پر سوار ہونا۔ آستین
 لمبی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”أَرْهَبَ عَنْهُ النَّاسُ بِأَسْهُ
 وَتَجَدُّنَهُ“ یعنی اس کے دیدہ اور دلیری نے
 لوگوں کو ڈرنے پر برا بھلا کرنا۔
 تَرَهَّبٌ : راہب بنا ہوا۔ دھمکی دینا۔
 اِسْتَرْهَبَهُ : خوف دلانا۔
 الزَّهَبُ : نیزہ کا باریک پھل۔ مِنَ الْإِبِلِ : سفر کی
 وجہ سے تمکا ہوا اونٹ یا اونٹنی۔ جَزَهَابٌ۔
 الزَّهَبُ : آستین۔
 الزَّهْبَةُ وَالتَّرَهْبِيُّ وَالتَّرَهْبِيُّ وَالتَّرَهْبَاءُ : ڈر۔
 خوف۔
 الزَّهْبَانِيَّةُ وَالتَّرَهْبَانِيَّةُ : دنیا اور لدا نڈ دنیا سے
 بے تعلقی۔
 الزَّهَابُ : قا۔ شیر۔ گرجاؤں کا گوشہ نشین۔ ج
 زَهْبَانٌ : مؤنث زَابِيَةٌ جَزَابَاتٌ وَزَوَاهِبٌ۔
 الزَّاهِبَةُ : بڑاؤنی حالت۔
 الزَّهْبَانُ : بہت زیادہ خوف کرنے والا۔ ج
 زَهَابِيْنٌ وَزَابِيَةٌ وَزَهْبَانِيُونٌ : مؤنث زَهْبَانَةٌ ج
 زَهْبَانَاتٌ۔
 الزَّهْبَانُ : راہب۔ جَزَهَابِيْنٌ مؤنث زَهْبَانَةٌ

جَزَهْبَانَاتٌ۔

الزَّهْبَانُ وَالتَّرَهْبَانُ : بہت ڈر۔ شدید
 خوف۔
 الزَّهْبَانَةُ : راہبوں کا طریقہ اختیار کرنا۔
 المَزَاهِبُ : خوفگیاں۔
 الزَّهْبُ وَالتَّرَهْبُ : خوفگاہ۔ شیر۔
 زَهْبَلٌ : غیر مفہوم کلام کرنا۔
 تَوَهَّبَلٌ : تیز چال چلنا۔
 الزَّهْبَلُ : مہم کلام۔ غیر مفہوم کلام۔
 الزَّهْبَلَةُ : تیز چال۔
 أَرْهَجَ : غبار۔ أَرْهَانًا : بَيْنَ الْقَوْمِ : بعض
 کو بعض پر بھڑکانا السَّمَاءُ : آسمان کا
 برسنے لگانا۔
 الزَّهْجُ وَالتَّرَهْجُ : اڑایا ہوا غبار۔ وَالتَّرَهْجُ :
 قدر و شمار۔ شور و شغب۔ بغیر پانی کے بادل۔ واحد
 (زَهْبَجَةٌ)
 الزَّهْوَجَةُ : ایک قسم کی چال۔
 زَهْدَةٌ (ف) زَهْدًا : باریک بینی۔
 زَهْدٌ : سخت نادانی و حماقت کرنا۔
 زَهَادَةٌ : العَيْشُ : زندگی کی آسودگی۔
 الزَّهْوَدِيَّةُ : مہربانی و نرمی۔
 الزَّهْدُ : نرم و نازک۔ ارزاں۔
 الزَّهْدِيَّةُ : نرم و نازک عورت۔ الزَّهْدِيَّةُ :
 ایک قسم کا کھانا جو کونے ہوئے گیسوں اور دودھ
 سے تیار ہوتا ہے۔
 أَمْرٌ (مَزْهُودٌ) : غیر محکم کلام۔ اور کہا جاتا ہے
 ”لَمْ يَكُنْهُمْ مَزْهُودِيْنٌ“ یعنی میں نے ان کو اس
 حال میں چھوڑا کہ وہ کسی امر کا عزم نہیں رکھتے
 تھے۔
 الزَّهْدَلُ : بیوقوف۔ کمزور۔
 الزَّهْدَنُ وَالتَّرَهْدَنُ وَالتَّرَهْدَنُ : بزدل۔
 بیوقوف۔ چڑیا کی مانند ایک پرندہ کا نام۔ ج
 زَهَادِيْنٌ وَزَهَادِيَّةٌ۔
 الزَّهْدُونُ : جھوٹا۔
 زَهْرَةٌ وَزَهْرَةٌ : مابذتہ : جو دو سخاوت سے
 دسترخوان پھیلاتا۔
 تَوَهَّرَهُ : الشَّرَابُ : سراب کا متواتر چمکنا
 جَسْمُهُ : جسم کا آسودگی کی وجہ سے سفید

و نرم و نازک ہوتا۔

الزہرة۔ م۔ چروکی بياشت۔ بشو کی چمک و مک۔

جسّم (زہرة و زہراء و زہرۃ) سرخ سفید نازک بدن۔ طست زہرة و زہراء: خموی گمرائی کاست۔ و ماء زہراء و زہرۃ: صاف پانی۔

زہز (ف) زہز او زہزانا۔ المتبايع: جماع کرنے والے کا حرکت کرنا۔

إزہزہ یلأمو: خوشی سے جمونا۔

زہس (ف) زہسا۔ الشی: سخت روندا۔ بہت پامال کرنا۔

توہس۔ الشی: بلنا۔ ادھر ادھر ہونا۔

إزہس القوم: بھیڑ کرنا۔ إزہس رجلًا الذابة: رگڑ کھانا۔ الوادی: بھر جانا۔ الجراد: بدبخت ہونا۔

إزہس الرجل: کانپنا۔ القوم: قوم کے درمیان لڑائی واقع ہونا۔ القوس: ترم و ست ہونا۔ الفرس: گھوڑے کا ٹکراتا۔

توہس الرجل: کریم و سخی ہونا۔ التافہ: اوٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔

الزہس: جانوروں کا گلے ٹانگوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔

الزہش: من الثواب: گرتی ہوئی مٹی جو نہ رکے۔ کمزور۔ باریک۔ کم گوشت والا۔ باریک پیکان۔ پتلا تیر۔ ناقة زہيشة: بہت دودھ والی اونٹنی۔

الزہشان: بازوؤں کے باطن کی دو رگیں۔

الزہشة: گرم حیا۔

الزواہش: ہتھیلی کے ظاہری رگیں۔ جانور کے بازوؤں کے اندر کی رگیں۔ واحد (زاہش و زاہشة)

زہص (ف) زہصا۔ الشی: سخت ٹھوڑا

الصیّد: شکار کو ست کر دینا۔ ہ۔

ملا مت کرنا۔ جلدی کرنا۔ الحایط: دیوار

کاپسارودہ رکنا۔ الفرس: کھروشی کرنا۔

زہص (س) و زہص زہصا۔ الفرس:

گھوڑے کا زخمی کھروالا ہونا۔

أزہص۔ الحایط: دیوار کا پسلا روہ رکنا۔ الشی: بنیاد رکھنا۔ ثابت کرنا۔ ہ۔

بجلالی کا بیع مانا۔ الفرس: گھوڑے کے کھر کوزخمی کرنا۔

زہص۔ غریبہ: قرض دار کی عمرانی کرنا۔ تو اہصت۔ الضخوز: چٹانوں کا آپس میں جتنا۔

الرہص۔ من الحایط: دیوار کا پسلا روہ۔ مٹی جس سے دیوار بنائی جائے۔

الزہاص۔ مٹی گارہ بنانے والا۔ الزہصة۔ گھوڑے کے سم کا زخم۔

الزہيص۔ من الخیل: سم کے زخم والا۔ خف رھيص: اونٹ کا کھر جس کو پتھر لگ گیا ہو۔

أسد رھيص: شیر جو اپنی جگہ سے لٹا نہ ہو۔ الزواہص۔ من الحجازة: سم کوزخمی کرنے والا پتھر۔ مضبوط جی ہوئی چٹانیں۔ واحد (زہصت)۔

الزہصة۔ مرتبہ۔ سورج۔ مع مزاحص۔ زہط۔ (ف) زہطاً۔ اللقمة: بڑا لقمہ لینا۔

کما جاتا ہے "هو يترهط" وہ بہت کھاتا ہے۔ زہط۔ بہت کھانا۔ اللقمة: بڑا لقمہ لینا۔

الرجل: سواری کی پیٹھ پر جم کے بیٹھنا۔ گھر سے نہ لگانا۔

إزہط القوم: اکٹھا ہونا۔ الزہط و الزہط۔ آدمی کی قوم اور قبیلہ تین سے دس تک کا گروہ جس میں کوئی عورت نہ ہو اور اس لفظ کا واحد نہیں۔ ج. أزہط و أزہاط و ج. أزہيط و أزہيط اور جب رہط کی جانب مدد کی

اشاعت ہوتی ہے تو اس سے مراد اشخاص و افراد ہوتے ہیں جیسے "عشرون زہطاً" یعنی بیس شخص۔ اور کہا جاتا ہے "نحن ذو زہط" ہم آٹھ ہیں۔ الزہط: دشمن۔

الرہاط۔ گھر کا سامان۔

الزہطة و الزہطاء و الزہطاء۔ من جحرة النیربوع: جنگلی چوہے کا وہ سوراخ جس سے وہ مٹی باہر نکالتا ہے۔ ج. زہاطی۔

الزہط۔ بہت کھانے والا۔ زہف (ف) زہفا۔ السیف: تلوار کو باریک

کرنا۔

زہف (ک) زہافة و زہفا۔ باریک و پتلا ہونا۔ صفت (زہیف)

أزہف۔ السیف: تلوار کی دھار پتلی کرنا۔ أزہف بالكلام: بی الہدیہ کہنا۔

الزہيف۔ پتلا۔ پتلی کی ہوئی دھار والی چیز۔ المزہف۔ مضم۔ سیف مزہف: تیز پتلی دھار کی ہوئی تلوار۔ فرس مزہف: دبلے پیٹ اور

قریب قریب پسلیوں والا گھوڑا۔ خصم مزہف: پتلی کر۔ مزہف الجسیم: ڈبلا پتلا۔

رجل (مزہوف) البدن: پتلے جسم والا مرد۔ زہق (س) زہقا۔ یوقوف ہونا۔ صفت (زہق) ہلکا ہونا۔ ظلم کرنا۔ بڑائیوں کا مرتکب ہونا۔

جھوٹ بولنا۔ جلدی کرنا۔ السقوف: قریب ہونا۔ وقت آنا۔ کہا جاتا ہے "زہقت الجلاب الصیّد" یعنی کتے شکار پر جا پھینچے۔

زہقا۔ برای کی قسمت لگانا۔ زہاق۔ الغلام: جوانی کے قریب پہنچنا۔ صفت (مؤاھق) کہا جاتا ہے "صلى الصلوة مؤاھقا"

اس نے وقت ختم ہونے کے قریب نماز پڑھی۔ أزہقا۔ غلظاً: جلائے ظلم کرنا۔ ہ۔

إشفا: گناہ پر برا لگینے کرنا۔ ہ غسوا: تکلیف دینا۔

ہ۔ بالیاء۔ فوق الطاقة کام پر آسانا۔ الصلوة: آخر وقت تک مؤخر کرنا۔

زیداً أن یصلی: نماز پڑھنے کی جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے "لا تزہقن لأزہقك اللہ" تو میرے اوپر سختی نہ ڈال اللہ میرے اوپر سختی نہیں ڈالے گا۔

الزہق۔ م۔ گناہ و قسمت۔ سبکی عقل۔ جمالت۔ فوق الطاقة کام پر برا لگینے کرنا۔

الزہقی۔ ایک قسم کی ڈور۔ کہا جاتا ہے "هو یعدو الزہقی"

الرهاق و الزہاق۔ مقدار۔ تقریباً کہا جاتا ہے "کانوا رهاقاً مائتة" وہ لوگ سو کے قریب تھے۔

الزہیق۔ شراب۔ الزہیقان۔ زعفران۔

المزہق۔ قتل کرنے کے لیے گرفتار۔ بھگی میں

ڈالا ہوا۔

المُرْهَقُ - مہ - خفیف العقل و جاہل - بدی و شرارت سے شہم - فیاض۔

زَهَكَ (ف) زَهَكَ - الشَّيْءُ : باریک پینا۔ صفت مفصوٰی (زَهَيْكٌ وَ مَرْمُوكٌ)

بِالْمَكَانِ : اقامت کرنا۔

إِزْهَكَ - چلنے میں سست ہونا۔

الزَّهْكَ - مہ - نیک کام۔

الزَّهْكَةُ - کمزوری۔

الزَّهْكَةُ وَ الزَّهْكَةُ : مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْإِبِلِ : کمزور ناتواں۔

زَهْلٌ (س) زَهْلًا : ڈھیلے اور پھولے ہوئے گوشت والا ہونا۔ صفت (زَهْلٌ) کہا جاتا ہے

”فَلَانٌ فِيهِ زَهْلٌ“ فلاں میں آس کے ساتھ ڈھیلا پن ہے۔

زَهْلَةٌ وَ زَهْلَةٌ : النَوْمُ : نیند کاست و ڈھیلا کرنا۔

تَوَهَّلَ : ڈھیلا ہونا۔

الرَّهْلُ - شہم کے مشابہ پتلا پتلا بادل۔

المُرْتَهِّلُ - عِنْدَ الْأَطْيَاءِ : ڈھیلے بدن والا۔

أَزْهَمْتَ - السَّمَاءُ : نرم بارش برسانا۔

الرَّهْمَةُ - نرم لگتا بارش - جِ رِهْمٌ وَ رِهَامٌ -

الرَّهَامُ وَ التَّوَهُمُ : دلی بکری۔

الرَّهَامُ - غیر شکاری پرندہ - بڑی تعداد۔

الْأَرْهَمُ - زیادہ فراخی و ارزانی والا۔

المَرْهَمُ - مرہم - جِ مَرَامٌ

مَكَانٌ (مَرْمُوكٌ) وہ جگہ جہاں ہلکی بارش ہوئی ہو۔

الزَّهْمَجُ - کشادہ۔

زَهْمَسَ زَهْمَسَةً - باہم راز کی باتیں کرنا۔ لُذٌّ

بِرَأْيِي كِي تَعْرِيفٍ کرنا۔

زَهْنٌ (ف) زَهْنًا - الشَّيْءُ فَلَانًا وَ عِنْدَ فَلَانٍ : گرو رکھنا۔ الشَّيْءُ : ہمیشہ رہنا اور اسی سے ہے

”بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ آيَاتِهِ“ اللہ کی نعمت ہمیشہ رہنے والی

ہے۔ الشَّيْءُ : ہمیشہ رکھنا۔ بِالْمَكَانِ :

اقامت کرنا (زَهْوَانًا) ڈھلا ہونا۔ صفت (زَاهِنٌ)

زَاهِنَةٌ وَ رَهَانًا وَ مَرَاهِنَةٌ - عَلَى الْخَيْلِ :

دوڑانے کیلئے شرط لگانا۔ عَلَى كَذَا : شرط

شہرنا۔

أَزْهَنَةُ - الشَّيْءُ : کسی کے پاس گرو رکھنا۔ أَزْهَنٌ فَلَانًا : کمزور کرنا۔ بَطِيْلٌ رِيًا - فِي السَّلْعَةِ : گران

کرنا۔ لِيَصِيْفِهِ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ : مہمان کے لیے ہمیشہ کھانا پانی تیار رکھنا۔ أَزْهَنُ الْمَيْتِ الْقَبْرِ : میت کو قبر میں رکھنا۔

تَوَاهَنَ - الْقَوْمُ : آپس میں شرط لگانا۔

إِزْقَهْنَ - الشَّيْءُ وَنَه : گروی لینا۔

بِالْأَمْرِ : کسی معاملہ میں مقید ہونا۔

اسْتَوْهَنَهُ - الشَّيْءُ : گروی طلب کرنا۔

الزَّاهِنُ - فَا - تيار - ہمیشہ رہنے والا۔ محکم و مضبوط۔ کہا جاتا ہے ”هَذِهِ خُجَّةٌ زَاهِنَةٌ“ یہ مضبوط دلیل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی خوراک وغیرہ۔

لاغر ڈھلا۔

الزَّاهِنَةُ - گھوڑے کی ناف اور اس کا ارد گرد۔

الزَّهْنُ - مہ - گروی۔ کسی چیز کا روکنا۔ گروی رکھی

ہوئی چیز - جِ رِهَانٌ وَ زُهْنٌ وَ زُهَيْنٌ وَ زُهْنٌ - کہا

جاتا ہے ”إِنِّي لَكَ زُهْنٌ بِكَذَا“ میں تمہارے

لیے اس کا ضامن ہوں۔

هَذَا (رُهْنٌ) مَالٌ : یہ مال کے برابر ہے۔ شَيْءٌ

مَرْمُوكَةٌ کے لیے بولتے ہیں کہ وہ مال جو لیا جا رہا

ہے اس کے یہ برابر ہے۔

الرَّهَانُ - مہ - خَيْلٌ الرَّهَانِ : شرط لگانے کے

گھوڑے اور ”هُمَا كَفَرَسِي رِهَانٌ“ : دو ہم

رہنے چیز کے بارے میں بطور مثال کے بولتے ہیں۔

الزَّهَيْنُ - گروی رکھا ہوا۔ کسی چیز کے بدلے میں

روکی ہوئی چیز - کہا جاتا ہے ”أَنَا زُهَيْنٌ بِأَعْمَالِي“

میں اپنے کاموں میں پھنسا ہوا ہوں۔

الزَّهِيئَةُ - گروی رکھی ہوئی چیز - کہا جاتا ہے ”أَنَا

زَهِيئَةٌ بِكَذَا“ میں اس میں پھنسا ہوا ہوں یا میں

اس کا ضامن ہوں۔ و ”كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

زَهِيئَةٌ“ ہر ایک نفس اپنے کماے ہوئے کے ساتھ

گروی ہے۔ و ”الْخَلْقُ زَهَانٌ الْمَوْتِ“ مخلوق

موت کے ساتھ محبوس ہے۔

المُرْزَقَهْنَ - مہ - ہر وہ چیز جو کسی چیز کے بدلے

میں روکی جائے۔ المُرْزَقَهْنَ بِالْأَمْرِ : کام میں پھنسا

ہوا۔ کہا جاتا ہے ”كُلُّ أَمْرٍ بِالْمَوْتِ مُرْزَقَهْنَ“

یعنی ہر انسان موت کے ساتھ مقید ہے۔

الْأَمْزُوزُ (مَرْمُوكَةٌ) بِأَوْ قَاتِيهَا : کام اپنے وقت پر واقع ہوتے ہیں۔

الزَّهْمَجُ وَ الزَّهْمَجُ : ملاحوں کے لیے بحری راستہ کا نقشہ (راہ نامہ کا معرب)

زَهَانٌ (ن) زَهْوًا - نرمی کرنا۔ نرم چال چلانا۔ کہا

جاتا ہے ”جَاءَتْ بِنَاحِيئِهِ زَهْوًا“ گھوڑے نرم

چال سے آئے۔ و ”أَزَّهُ عَلَى نَفْسِكَ“ اپنے اوپر

نرمی کرو۔ التَّخَوُّرُ : دریا کا ساکن ہونا

بَيْنَ رَجُلَيْنِ : کھولنا۔ الطَّائِرُ :

پرندہ کا بازو پھیلانا۔

زَاهِي مَرَاهَةٌ - الزُّجْلُ : قریب ہونا۔ انکشا

ہونا۔ باہم حماقت کرنا۔

أَزْهَى إِزْهَاءً - کشادہ جگہ پانا۔ رہو پرندہ کے

کھانے پر مدامت کرنا۔ لَهُمُ الطَّعَامُ :

ہمیشہ تیار رکھنا۔ عَلَى نَفْسِهِ : نرمی کرنا۔ کہا

جاتا ہے ”أَزَّهُ عَلَى نَفْسِكَ“ اپنے اوپر نرمی کرو

و ”أَزْهَى لَكَ الشَّيْءُ“ تمہارے لیے یہ چیز ممکن

ہے و ”أَزْهَيْتُ لَكَ“ میں نے تم کو اس پر قدرت

دی۔

تَوَاهَى - الْقَوْمُ : باہم نرمی برتنا۔

إِزْقَهَى - الْقَوْمُ : باہم مغلطہ ہونا۔ رہیہ تیار کرنا۔

(دیکھئے لفظ زَهِيَّة)

الزَّهْوُ - سارس یا اس کے مشابہ ایک پرندہ ج

رہاؤ (وَالزَّهْوَةُ) لوگوں کی جماعت۔ بندی پاست

جگہ - بِنْفُزٌ بِنْفُزٌ : چوڑے منہ کا توال۔

تَوْبُوتٌ وَ هَوٌّ : باریک کپڑا۔ خَازِقَةٌ وَ هَوٌّ : لگاتار

لوٹ۔ اور کہا جاتا ہے ”النَّاسُ وَ هَوٌّ مَا بَيْنَ

الْمَدِينَةِ وَ الْجَبَلِ“ لوگ شہر اور پہاڑ کے

درمیان لگاتار آرہے ہیں۔

الزَّهَاءُ - مِنَ الْأَمَانِ : کشادہ جگہ۔

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : ہر چیز کا ہوا رخصتہ۔

الزَّاهِي - مِنَ الْعَيْشِ : آسودہ زندگی۔

الزَّاهِيَةُ - الرَّاهِي كَامُونِيَّةٌ - شہید کی کمی۔

الزَّاهِيَةُ - ایک قسم کا کھانا جو خوش کوبھوں سے

مل کر کوٹا جاتا ہے اور دودھ ڈال کر تیار کیا جاتا

ہے۔

الزَّهْوَانُ - پست زمین۔ ترکی گھوڑے کو بھی

زَهْوَانٌ کہتے ہیں جبکہ چلنے میں نرم پیچھے کا ہو

(معرب)

الأزهاء اطراف وجوانب۔

الغزفي من الخيل: تيز رفتار گھوڑا جو دیکھنے میں تیز نہ ہو اور مقابلہ کے وقت ہاتھ نہ لگے۔ ج الغزاي۔

زهوك الزجل: چلنے میں ڈھیلے جوڑوں والا ہوتا۔ القوم: مضطرب ہوتا۔

الزهوك: موٹا بکری کا پتیرا ہرن) شائب۔

زهوك: نازک بدن جوان۔

زهيا كزور اور ست ہونا۔ فاسد ارادے ہونا۔ محنت یا بھاپے کی وجہ سے کسی کی آنکھوں کا اندر گھس جانا۔ السحاب: برسنے کے لیے تیار ہونا۔

توتها: مضطرب ہو کر حرکت کرنا۔ فی امره: کام میں کھلی کرنا، کبھی ارادہ کرنا کبھی چھوڑنا۔ السحاب: برسنے کے لیے تیار ہونا۔

زوا تزوینا و تزوینة فی الامر: کام کے انجام میں غور و فکر کرنا۔

الزويقة والزويقة: غورو فکر۔

الازبياء: سوچ بچار غورو فکر کرنا۔

الزاء: حروف سبھی کا ایک حرف۔ سندر کا جھاگ۔ ایک درخت کا نام۔ واحد (زاة) (ق)

زاب (ن) زوئا و زوئا المين: جتنا۔ صفت

(زائب) کہا جاتا ہے "زاب دة" اس کی پلاکت

کا وقت قریب آ گیا۔ الزجل: تخمیر ہونا۔

جموت ہونا۔ عقل میں ثور ہونا۔ ست ہونا۔ نیند

بھوک یا دنگھ کی وجہ سے متوالا جیسا ہونا۔

زويت الذابة: جانور کا ٹھکانا۔

زوب و ازاب۔ المين: دبی۔ جانا۔

الزائب: فاجہا ہو اور دہ دی۔

الزائب من الامور: صاف معاملات جن میں کوئی شبہ نہ ہو۔ نیز مشتبه امور (ضد)

الزائب: اندازہ کہا جاتا ہے "هذا زائب كذا"

یہ اس کے مقدار کا ہے۔

الزوب: جما ہوا دودھ۔ کھن نکلا ہوا دودھ

دبی۔ کہا جاتا ہے "ما عتده شوب ولا زوب"

اس کے پاس نہ تو شمد ہے نہ جما ہوا دودھ اور

صحت میں ہے "لا شوب ولا زوب" یعنی التبع و

الشيء" خرید و فروخت میں دھوکا قریب اور

اور گریز نہیں ہونی چاہئے۔

الزوية والزوية: جان (یعنی چھاپہ جو وہی

جمانے کے لیے دودھ میں ڈالا جائے، دودھ کا

بقیہ۔)

الزوية: حاجت اور اسی سے ہے "فلا ن لا

يقوم بزوية أهله" فلاں اپنے لوگوں کی حاجت

کیلے مستعد نہیں۔ مدار زندگانی۔ محتاجی۔ حیرانی۔

زیادہ پینے سے کسل مندی۔ الزوية من اللحم:

گوشت کا ٹکڑا۔ من الليل: رات کا ایک

حصہ۔

الزجل: مرد کی عقل۔ تم کہتے ہو "هو يحدنني

وانا اذ ذاك غلام لئيسنت له زوية" وہ مجھ سے

بات کر رہا تھا اور میں اس وقت ایسا لڑکا تھا جس کے

لیے عقل نہ ہو۔

الزوب: حیران۔ ست۔ اونگھ یا علم سیری کی

وجہ سے کسل مندی۔

الزوي: وہ لوگ جو چلنے کی وجہ سے ست

ہو گئے ہوں۔ قوم زوي: ست طبیعت کے لوگ

وہ لوگ جنہوں نے وہی پیا ہو اور ست ہو گئے

ہوں۔ واحد (زائب و زويان)

المزوب: دودھ جمانے کا برتن۔

سقاء (مزوب) مظہیرہ جس میں دودھ جمایا گیا

ہو۔

زائ (ن) زوئا۔ الفرس: لید کرنا۔

الزوت: لید۔ ج ازاوت۔

الزوية: روٹ کا واحد۔ ناک کے سرے کا کنارہ۔

کہا جاتا ہے "فلا ن يضر بلسائيه زوية الفه"

فلاں اپنی ناک کے کنارے تک زبان کو لے جاتا

زوج۔ الشئ و به: جلدی کرنا

السلة والذاهم: راج کرنا

فلا ن

كلامه: مزین و مجسم کرنا۔

تزوج: حوض کے گرد گرد گھومنا۔ صفت

(زوج)

الزوجة: جلدی۔

زاح (ن) زواخا۔ شام کے وقت آنا یا جانا کام

کرنا اور بغیر وقت کی تخصیص کے مطلقاً جانے

کے معنی میں مستعمل ہے۔

(زواخا و زواخا) القوم والنهم

وعندهم: شام کے وقت کسی کے پاس جانا

(مطلقاً) جانا۔

(زواخا) القوم: تیز ہوا والا ہونا۔

زاح تبريح زبنا: الشئ: بوجھوس کرنا۔

زاح يواخ زبنا: القوم: تیز ہوا والا ہونا

البيث: ہوادار ہونا۔ کہا جاتا ہے "افتح

الباب حتى يواخ البيث" دروازہ کھولو تاکہ

گھر ہوادار رہے۔ الزبج الشئ: ہوا

لگنا۔ القوم الريح: ہوا میں داخل ہونا۔

زاح يواخ زاحة: للمفروق: بھلائی کو

خوشی سے کرنے کے لیے جلدی کرنا۔

يدة للامر: سبک ہونا۔ الشحز: نئے

چے نکالنا۔ الشئ: بوجھوس کرنا۔ کہا جاتا

ہے "زاح منك مفروقاً" اس نے تم سے بھلائی

حاصل کی۔

زاح يواخ زواخا و زواخا و زواخا و زواخا

وزوواخا و زواخا و زواخا و زواخا و زواخا

کے ساتھ متوجہ ہونا۔

زاحت تراخ و زاحت: الايل: اونٹوں کا شام

زوج۔ القوم: قوم کے پاس شام کے وقت جانا

الزجل: آرام رہنا۔

الايل: شام کے وقت بازہ میں اونٹوں کو واپس

لانا۔ بالجماعة: تراویح کی نماز پڑھنا

قلبه: کسی کے دل کو بیدار کر دینا۔

الذهن: تیل کو خوشبو دار بنانا۔

عَلَيْهِ بِالْمَرْوَةِ بِكَمَا تَهْلِكُ.

أَرَاخُ إِزَاحَةً. الْقَوْمُ: هُوَ امِنْ دَاخِلٍ هُوَا
 ۵: آرام پہنچانا _____ علی فلان
 حَقَّقَهُ: داہیں کرنا _____ الإبل: باڑہ کی طرف
 اوٹوں کو واپس لانا _____ الْمُعْرُوفُ: بھلائی
 حاصل کرنا پانا _____ الشَّيْءُ: بوجھوس کرنا
 _____ الْمَاءُ او الْمَحْمُومُ: پانی یا گوشت کا بدبودار
 ہونا۔

الزُّجُلُ: سانس لینا۔ شام کے وقت میں داخل
 ہونا۔ مرنا۔ کہا جاتا ہے "أَرَاخُ لَهَا زَاحٌ" اس نے
 مر کر آرام پہنچایا۔

أَرُوخُ: الْمَاءُ: پانی کا بدبودار ہونا _____
 الشَّيْءُ: بوجھوس کرنا _____ عَلَيْهِ حَقَّقَهُ:
 داہیں کرنا۔

زَاوَحَ: بَيْنَ الْعَضَلَيْنِ: باری باری مشغول
 ہونا _____ تَيْنَ رِجْلَيْهِ: باری باری ایک ایک
 ٹانگ پر کھڑا ہونا۔

تَرَوَّحَ: شام کے وقت چلنا یا عمل کرنا۔
 _____ الْقَوْمُ: قوم کے پاس شام کے وقت جانا
 _____ الشَّجَرُ: نئے پتے نکالنا _____ التَّبَيُّتُ:
 بناگت کا طویل ہونا _____ الْمَاءُ: پانی کا بدبودار
 ہونا _____ بِالْمَرْوَةِ: بیکسا ہلانا۔

الشَّعْبِيُّ: بھڑک دار خوشبودار ہونا۔
 تَرَوَّحَ: الزُّجُلَانِ الْأَمْرُ: باری باری کرنا۔
 اور اس سے یہ قول ہے "إِنَّ يَدَيْهِ تَتَرَوَّحَانِ
 بِالْمَعْرُوفِ" اس کے دونوں ہاتھ باری باری
 بھلائی کو کرتے ہیں۔

إِزَاحَ: خوش ہونا _____ اللَّهُ لَهُ بِرَحْمَتِهِ:
 مصیبت سے چھڑانا۔ کہا جاتا ہے "هَمَّا يَوْ قَوْحَانِ
 عَضَلًا" وہ دونوں نوبت نوبت کرتے ہیں۔

إِسْتَرَوَّحَ: إِسْتَرَوَّحَ: آرام پانا۔ الیہ: سکون
 پانا۔

إِسْتَرَوَّحَ: إِسْتَرَوَّحَا: آرام پانا۔ الشَّيْءُ:
 سوگنا _____ الْفُضُّ: شئی کا ہوا سے بنا
 _____ الصَّيْدُ: شکار کا انسان کی بوجھوس کرنا
 _____ الشَّجَرُ: سرسبز کرنا۔

الزَّوَّاحُ: شراب۔ خوشی۔ نشاط۔ یَوْمَ رَاخٍ:
 سخت ہوا کا دن۔

الزَّوَّاحَةُ: مہ۔ آرام۔ الزَّوَّاحُ: کاواہ۔ یعنی بھلی۔
 مَحْنُ: کف دست۔ کہا جاتا ہے "تَوَكَّنْتُ عَلَى الْفُحَى
 مِنَ الزَّوَّاحَةِ" میں نے اس کو ایسی حالت میں چھوڑا
 کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کپڑے کی۔ کہا جاتا
 ہے "إِظْلَمَ الْقُؤُبُ عَلَى زَاوَحِيهِ" کپڑے کو اس کی
 تہ پر لپیٹو۔ ج زَاوَحَاتُ: لیلۃ زَاوَحَةُ: تیز ہوا والی
 رات۔

الزُّوَجُ: آرام۔ نرم ہوا۔ انصاف جو شکایت
 کرنے والے کو آرام پہنچانے۔ مدد۔ خوشی۔ رحمت
 و مہربانی۔ یَوْمَ زَوْجٍ: عمدہ و خوشگوار دن۔ سہانوں۔
 الزَّوَّاحَةُ: راح کا اسم مرہ۔ ج زَاوَحَاتُ: لیلۃ
 زَوْحَةُ: سہانی رات۔

الزُّوَجُ: جان (نذکر و مؤنث) نفس۔ کہا جاتا ہے
 "هُوَ حَفِيْفُ الزُّوَجِ" یعنی وہ لطیف و پاکیزہ ہے۔

وَجِي: حَمْدُ خُدَاوندی۔ امر الہی۔ قرآن۔ پیغام
 خدَاوندی۔ جبرئیل۔ الزُّوَجُ الْأَعْظَمُ: اللہ تعالیٰ۔
 زَوْجُ الْقُدُسِ: جیسا ایوں کے نزدیک اقامت ملائکہ
 کا تیسرا قوم: الزُّوَجُ الْأَمِينِ: حضرت جبرئیل
 عَلَیْہِ السَّلَامُ کیلئے (زَوْحَانِي) ج أَرُوَّاحٍ اور
 حَقْدَمِينِ حکماء کے نزدیک معنیات کی ایک قسم۔
 جیسے پارہ پر اطلاق ہوتا ہے۔ نیز دواؤں کے ست و
 جواہر پر بولا جاتا ہے۔ الْأَرُوَّاحُ الْحَفِيْفَةُ:
 شیاطین۔

الزُّوَجُ: دونوں ٹانگوں کے درمیان کشادگی
 وسعت۔

الزُّوَّاحُ: مہ۔ شام یا زوال آفتاب سے رات
 تک۔ اس کے مقابلہ میں صبح ہے۔ کہا جاتا ہے
 "نَحَرُ جَوَابِ زَوَّاحٍ مِنَ الْعَشِيِّ" وہ شام کی ابتدا
 میں لگے۔ و "أَفْعَلُ ذَلِكَ لِي مَسْرَاحٍ وَزَوَّاحٍ"
 میں صبح شام اس کو کرتا ہوں (و الزَّوَّاحَةُ
 وَ الزُّوَّاحَةُ وَ الزَّوَّاحَةُ: خوشی جو یقین حاصل ہونے
 سے پیدا ہو۔

الزُّوَّاحُ: ہوا (مؤنث) ج أَرَزَاحُ وَ أَرُوَّاحٍ
 وَ رِيَّاحُ وَ رِيَّاحُ وَ أَرِيَّاحُ: بوجھوس کرنا۔
 چیز۔ رحمت۔ مدد۔ غلبہ۔ وقت اور ہوا میں چار ہیں۔
 الْخُؤُوبُ: وکمنی۔ التَّسْمَلُ: آنری۔ الضَّمَاءُ:
 پُرُوَالِي۔ الدَّلْبُورُ: بچھوالی۔
 الرِّيْحَةُ: ہوا۔ بوجھوس کرنا۔

الزُّوَّاحَانُ: ہر ایک خوشبودار پودہ۔ مصیبت و
 روزی۔ فرزند۔ ج زَوَّاحِيْنِ۔

الزُّوَّاحَانَةُ: گلہ سہ۔

الزُّوَّاحُ: مِنَ الْأَيَّامِ: تیز یا آہستہ ہوا والا دن۔

الزَّوَّاحَةُ: رايح کا مؤنث۔ بوج زَاوَحَاتُ
 وَ زَوَّاحِيْنِ۔ الزُّوَّاحِيْنِ: شام کے وقت کی بارش یا
 بادل۔ کہا جاتا ہے "عَالَمُهُ مَسَارِحَةٌ وَ لَا زَاوَحَةٌ"
 یعنی اس کے پاس موٹی میں سے کچھ نہیں۔

الْأَرُوَّاحُ: ٹانگوں کے درمیان کشادگی والا۔
 مؤنث زَوْحَاءُ ج زَوْحُ (_____ وَالْأَرِيَّاحُ)
 کشادہ۔

الْأَرِيَّاحِيُّ: کشادہ اخلاق والا۔
 الْأَرِيَّاحِيَّةُ: وہ خصلت جو انسان کو افعال حمیدہ
 اور فیاضی کرنے سے مسرور کرتی ہے۔

الزُّوَّاحِيْنِ: ترویج کی جمع۔ جس کے معنی مطلقاً
 بیٹھنے کے ہیں۔ پھر اس بیٹھنے پر اطلاق ہونے لگا جو
 رمضان کی راتوں میں چار رکعت پڑھ لینے کے
 بعد آرام حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پھر ہر
 چار رکعت ہی کو ترویج کہنے لگے اور تراویح کا
 اطلاق پوری میں رکعت نماز پر بھی ہوتا ہے جن
 کو رمضان میں پڑھتے ہیں۔ الزُّوَّاحُ: روانہ
 ہونے یا داہیں آنے کی جگہ۔

الزُّوَّاحُ: اونٹ یا گائے یا بکری کا باڑہ۔

الْمَعْرُوفُ وَ الْعَرِيْفُ: ہر وہ چیز جس کو ہوا لگے۔
 یَوْمَ مَعْرُوفٍ: اچھی ہوا والا دن۔

الْمِعْرُوفُ وَ الْمِعْرُوفَةُ: بیکسا۔ ج مَعْرُوفِ:

الْمَعْرُوفَةُ: بیابان۔ ج مَعْرُوفِ:

الْمَعْرُوفُ: مہ۔ ذُھن مَعْرُوفٌ: خوشبودار تھل۔
 الْمُسْتَرَوَّاحُ: پناہ۔

نَرَوَّحَ: لِي الطَّيْنِ: بچھڑیں پڑنا۔

رَادٌ يَرُوذُ زَوْدًا وَ رِيَادًا: الشَّيْءُ: طلب کرنا

الْأَرْضُ: قیام کے لیے چراگاہ و پانی وغیرہ

کی دیکھ بھال کرنا _____ قَوْمُهُ مَرَعَى او

مَنْزَلًا: قوم کے لیے چراگاہ یا منزل کی تلاش

کرنے کی کوشش کرنا۔

رَادٌ يَرُوذُ زَوْدًا وَ رِيَادًا: کسی چیز کی تلاش

میں گھومنا اور آنا جانا۔ رَادَتِ الْإِبِلُ: اونٹوں کا

چراگاہ میں آگے پیچھے آنا جانا۔

بانگوں کے بہترین نکلائے۔ الزوۃ: حوض کا بقیہ پانی۔ کہا جاتا ہے "لھی الخوض زوۃ من الماء" حوض میں تھوڑا پانی ہے جس نے زمین کو چھایا ہے۔

الریضة: الزوۃ میں ایک لغت۔
الریاضة: مہ۔ جسمانی ورزش۔ بڑی حالت کو اچھی حالت سے بدلنا۔ اخلاق نفسانی کی ترمیم۔ عبادت اور حقائق ایمانی میں غور و فکر کرنا۔

العلم الرياضي و علم الرياضيات: علم حساب الجبرا و جیومیٹری وغیرہ علوم۔

الریض: وہ جانور جس کو سدھایا جانا شروع کیا گیا ہو۔ مذکورہ مؤنث اس میں برابر ہیں۔ "أمر زیض" غیر محکم کام۔

الریضة: بلخ۔
المراض: نرم نشیبی زمین میں سخت جگہ جو پانی کو روک لے۔ سب مرایض و مراضات۔

أرض (منسز وضة) عمدہ نباتات اگانے والی زمین۔ نباتات منسز وضة: نباتات جو بڑھنے اور لے ہونے میں اتنا کچھ بھیج گئی ہو۔

زاط یروظ و یریط زوظا و یریطا۔
بالمکان: پناہ ڈھونڈنے والے کی مانند ہونا۔

زاع یرزوع زوعا و زووعا۔ منہ: گھبرانا۔ صفت ازواع و زوع: لھی یندی کذا: قائمہ دینا۔ زاعا لامز: گھبرانا۔ تعجب میں ڈالنا۔ زاع یرزوع و یریع زواعا لولوا۔ واپس ہونا۔

ریغ: فلان: گھبرانا۔ ڈرنا۔
ازاع و زوع: گھبرانا۔ ڈرنا۔ تعجب میں ڈالنا۔

زوع (س) زوعا: ازوع ہونا۔ (دیکھئے لفظ ازوع)

ازوع: ازواعا۔ الزاعی الغنم: چرواہے کا بکریوں کو ڈھنسا۔

ازواع و تزوع: منہ و لہ: ڈرنا۔ ازواع للخبیر: خبر کی وجہ سے خوش ہونا۔

الزوع: مہ۔ خوف۔ ڈر۔ لڑائی۔
الزوعۃ: ڈر۔ حسن و جمال کا حصہ۔

الزوع: دل کا سیاہ نقطہ اور بقول بعض دل میں ڈر کی جگہ۔ ذہن۔ عقل۔ کہا جاتا ہے "أفرغ

زوعک" اپنے دل کو مطمئن رکھو۔

الزوع: ازوع کا اسم (دیکھئے لفظ ازوع) الازوع: حسن یا بہادری وغیرہ سے تعجب میں ڈالنے والا۔ ہوشیار۔ ذکی۔ ج زوع و ازوع۔

مؤنث زوعاء۔ قلب ازوع: جلدی گھبرا جانے والا دل۔

فلان: ازوع القلب: ہوشیار۔ ذکی۔
الزواع: فا۔ حسن یا بہادری وغیرہ سے تعجب میں ڈالنے والا۔ ج زاعون و زوع مؤنث۔ زاعۃ: ج زواع و زوع: کلام زواع: خوشگوار کام۔

زاعۃ الشیب: بڑھاپے کی ابتداء میں زاعۃ النهار او الضحی: دن یا چاشت کے وقت کا بڑا حصہ۔

الزوع: خوفزدہ۔ درست السام پانے والا۔
زاع (ن) زوعا و زوعانا۔ الضیغ: شکار کا ادھر ادھر جانا۔ الزجل عن الطريق: کمرو فریب سے ہارنے سے کتر اکر چلنا۔

القی کذا: بچکے سے کسی جانب مائل ہو جانا۔
علیہ بالضرب: مارنے کیلئے ٹوٹ پڑنا۔

زوع اللقمة فی الذسم: لقمہ کو اچھی طرح چکنا کی میں الٹ پلٹ کر تر کرنا۔

زواعہ مزواعۃ: کشتی لڑنا۔ فریب دینا۔ زواعہ علی الامر: بھسلانا و رغلانا۔

زواع القوم: کمرو فریب سے ایک دوسرے کو طلب کرنا۔

ازاعۃ ازاعۃ و ازواعۃ ازیتاعا۔ کمرو فریب سے طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "مازلت اریغ حاجۃ لی" میں ہمیشہ اپنی حاجت کو طلب کرتا رہا اور کہا جاتا ہے "ازواع الغناب الضیغ" عقاب شکار کا پھینکا کرنے میں ادھر ادھر جانا۔ ازاعہ علی امر و عن امر: بھسلا ہلا کر طلب کرنا۔ ازاع الزجل: بھوکا رہنا۔

تزوع الجماز: گدھے کا خاک میں لوٹنا۔
تزواعا۔ ایک دوسرے کو فریب دینا۔ باہم کشتی کرنا۔

الزواع: فا۔ طریق زواع: کج راستہ۔
الزواع و الزوعۃ: کمرو جیلہ۔

الزواع: بہت فریب و مکر کرنے والا۔ لومڑی۔ کہا

جاتا ہے "یو نعلت زواع" و "ہم نعلت زواعۃ" وہ یا وہ لوگ فریب دینے والی لومڑی کی مانند ہیں۔

الریاغ: سرسبزی۔
الریاغۃ و الرواغۃ: کشتی کا کھارہ۔

زاف یراف۔ زاف یراف میں ایک لغت ہے۔

الزوف: سکون، اطمینان۔
الزوفۃ: رحمت۔

زاق یرزوق زوقا۔ الشراب: صاف ہونا۔
علیہ: بغیلت و خوبی میں بڑھ جانا۔

زاقۃ زوقا و زوقانا۔ الشی: تعجب میں ڈالنا۔
پسند آنا۔ خوش کرنا۔

زوق یرزوق زوقا۔ اوپر کے دولہے و عتسوں والا ہونا۔ صفت (ازوق) مؤنث زوقا و زوق۔

زوق: الشراب: صاف کرنا۔ زوق بضاعته: سامان بیچ کر عمدہ سامان خریدنا۔ زوق و ازوق (ازوقا) اللیل: تاریکی پھیلانا۔

زوق البیت: سامان بنایا جانا۔
زوقۃ مزوقۃ: کسی کے برآمدہ کے مقابل برآمدہ بنانا۔ کہا جاتا ہے "ہو مزوقی" اس کا برآمدہ میرے برآمدہ کے مقابل ہے۔

ازاق ازاقۃ۔ الماء: بہانا۔ ذمہ: خون گرانہ۔ کنایہ قتل کرنے سے۔

الزائق: فاج۔ زوق و زوقۃ۔
الزوق: مہ۔ سینگ۔ من البیت:

سامان برآمدہ۔ من الشباب: جوانی کی رونق و ابتداء۔ من الخیل: خوبصورت گھوڑا۔ من اللیل: رات کا ایک حصہ۔

من الماء و نحوہ: صاف۔ زوق القریس: تیزہ جو گھوڑے کے کانوں کے درمیان میں رکھا ہوا ہو۔ اس صورت میں گھوڑے کو "ازوق" کہتے ہیں۔

الزوق: خالص نعت۔ چیز کی زیادتی۔ بارش۔ عمر۔ پروردہ۔ بڑا خیمہ۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے "ذاہیۃ ذات زوقین" یعنی بڑی مصیبت و

"زعی بازواقہ علی الذابۃ" یعنی وہ سوار ہووا "القنی بازواقہ عن الذابۃ" یعنی وہ دابہ سے اتر پڑا۔ و "القنی ازواقہ" یعنی وہ تیز دوڑا۔ نیز بمعنی

الطینان کے ساتھ اقامت کی۔ و "صَرَبَ زَوْقًا بِمَنْزِلٍ كَذَا" وہ فلاں منزل پر آتا اور اس نے خیرہ لگایا۔ و "الْقَى عَلَيْكَ اَرْوَاقُهُ وَشَرِبَتْهُ" اس موقع پر بولتے ہیں جب یہ کہنا ہو کہ تم فلاں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ و "الْقَتَّ السَّحَابَةُ اَرْوَاقُهَا" بادل نے اپنا رھانہ کھول دیا۔

الرِّوَاقُ وَالرِّوَاقُ برآمدہ۔ سائبان۔ پھت سے لے کر چیچے تک کا پردہ۔ جِ اَرْوَاقُهُ وَرِوَاقَاتُ وَرُوقُ رِوَاقِ الْعَيْنِ: ابرو۔ رِوَاقِ اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ۔

الرِّوَاوُوقُ: چھنا۔ برتن۔ جس میں شراب صاف کی جائے۔ پیالہ۔

رِوَيْقُ الشَّيْبَانِ: جوانی کی رونق و ابتداء اور کہا جاتا ہے "كُنْتُ فِي رِوَيْقِ زَمَانِي" میں اپنے زمانہ کی ابتداء میں تھا۔ وَرِوَيْقُ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا افضل حصہ۔

الرِّوُوقُ: اوپر کے دو دانتوں کا لمبا ہونا (اور یہ عیب ہے)

الرِّوُوقَةُ: بہترین حسن و جمال۔

الرِّوُوقَةُ: رائق کی جمع۔ بہتر لوگ۔ کہا جاتا ہے "عَلِمْنَا رِوُوقَةَ" خوبصورت لڑکے اور بچیوں کو "مؤنث" واحد اور جمع کے لیے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "غَلَامٌ رِوُوقَةٌ جَارِيَةٌ رِوُوقَةٌ وَجَوَارٌ رِوُوقَةٌ"

الاروق: سینگ والا۔ اوپر کے دو بڑے ہونے والے والا۔

المرووق: صاف کیا ہوا۔ نتھارا ہوا۔ بیٹ

مرووق: سامنے پردہ لگا ہوا مکان۔

الرؤوقة والرؤوقاء: نرالو کی آواز۔

رؤول: القروش: گھوڑے کی رال۔ ہنا۔ رؤول العنبر: مٹی سے روئی کو اچھی طرح تڑکنا۔

الرؤوال: گھوڑے کی رال۔ ج رؤواويل۔

الجؤول: بہت رال والا۔

زَامُ (ن) رَوْحًا وَمَرَامًا الشَّيْءُ: ارادہ کرنا۔ صفت (زائِم) ج رَوْحٌ وَرَوْامٌ۔

رَوْمٌ: ٹھہرنا۔ فَلَانًا وَبِهِ: خواہش دلانا۔

زَابَةٌ: ایک چیز کے بعد ایک چیز کا ارادہ

کرنا۔

تَرَوْمٌ بِهِ: ٹھٹھا کرنا۔

الزوام: ایک درخت کا نام۔

الزامة: جوہر۔ ایک دیہاتی موضع کا نام۔ اشعار میں اکثر اس کا استعمال تشبیہ سے ہوتا ہے۔

الزؤوم والزؤوم: کان کی لو۔

الزؤوم والازؤوام: بحر متوسط کے شمال کے رہنے والے لوگ۔ واحد (زؤومی) نھرائیوں کا ایک گروہ۔

بئخر الزؤوم: بحر متوسط جس کو بحر ابیض بھی کہتے ہیں۔

زؤومة وزؤومية: قدیم اور مشہور شرک کا نام جو اٹلی کا دارالسلطنت ہے۔ نسبت کے لیے زؤومائی۔

الزؤومی: خالی کشتی کا بادبان۔

الزؤومة: سریش جس سے تیر کا پر جوڑا جاتا ہے۔

المزام: مقصد۔ مطلب۔ ج مزامات۔

زَان يَرْوُونَ زَوْنًا: الأمو: سخت ہونا۔ زَانِبٌ اللَّيْلَةُ: سخت خوفناک ہونا۔

الزؤون: سختی۔ ج زؤون۔

زؤونة الشئ: چیز کا بڑا حصہ۔ چیز کی سختی۔ کہا جاتا ہے "كَشَفَ اللَّهُ عَنْكَ زؤونةَ هَذَا الْأَمْرِ" اللہ تعالیٰ تم سے اس معاملہ کی سختی کو دور کریں۔

الأزؤوان: سخت۔ دشوار (الأزؤوان و الأزؤوانی) ہر چیز کی سختی (مثلاً سردی، گرمی، خوشی، غمی، شور وغیرہ کی) مؤنث اَزؤوانة و اَزؤوانیة۔

مَرؤونٌ بِهِ: مغلوب۔

زَاهُ (ن) رَوْحًا وَرَوْحًا: الماء: پانی کا سطح زمین پر لہرانا۔

زؤی (ض) رِوَايَةُ الْحَدِيثِ: نقل کرنا۔ بیان کرنا۔ صفت زَاوٍ: ج رِوَاةٌ وَرَاؤُونَ۔

الحنبل: رشتی بٹا۔ الرخل: اونٹ پر رشتی سے کجاہ باندھنا۔ القوم: قوم کے لیے پانی لانا۔

رِوِي (س) رِيًا وَرِيًا وَرِوِي: مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (رِيَان) مؤنث رِيَانٌ جِ رِوَاءٌ۔

الشحجؤ: سرسبز ہونا۔

زؤی تروية: سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔

الشعز: شعر کی روایت کرنے پر آمادہ کرنا۔

التبسات: نباتات کو پانی دینا۔ زؤی فی الأمر: غور و فکر کرنا۔

تروئی تروية: سیراب ہونا۔ غور و فکر کرنا۔

الحديث: نقل کرنا۔ بیان کرنا۔

القوم: سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔ تروئت مفاصلة: جوڑوں کا معتدل و مضبوط ہونا۔

ازتوی: اِزْوَاعِيْنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔

الحنبل: رشتی کا بٹ۔ مفاصلة: جوڑوں کا معتدل و مضبوط ہونا۔

الروی: سیرابی۔ ایک درخت کا نام۔ خوش حالی و زیادتی نعمت۔

الروی: سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔

الزؤ: سرسبز (اس کی اصل زؤی ہے یا کواد سے بدل دیا گیا ہے)۔

الریا: عمدہ خوشبو۔ عین (رِیة) بہت پانی والا چشمہ۔ اور کہا جاتا ہے "مِنْ أَيْنَ رِيَّتِكُمْ" کہاں سے تم پانی لاتے ہو۔

الریة: زؤی کا اسم نوع۔ بھجڑا۔ رِیة التبخور: سمندر کے حیوانات میں سے ایک قسم ہے۔

الزوی: مِنَ الشُّوب: پوری سیرابی۔ کہا جاتا ہے "شَرِبْتُ شُرْبًا رِوِيًا" میں نے خوب سیراب ہو کر پیا۔ ماءٌ رِوِيٌّ: اور اور سیراب کرنے والا پانی اور ایسا ہی کہا جاتا ہے "تَمَّاسٌ رِوِيَّةٌ" الزوی سخت بارش والا ہادل۔ تندرست و صحیح المعنى۔

پلانے والا۔ قافیہ کا حرف۔

الزویة: الزوی کا مؤنث۔ امور میں غور و فکر۔ حاجت۔ قرض وغیرہ کا بقیہ۔

الریان: سیراب۔ سرسبز شئی وغیرہ۔ مؤنث رِيَانٌ جِ رِوَاءٌ وَجَفَرِيَانٌ: پرگشت چہرہ اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ رِيَانٌ مِنَ الْعِلْمِ وَهُمْ رِوَاءٌ هِنَةٌ" فلاں یادہ لوگ بہت علم والے ہیں۔

الرؤاء: ج اَرْوِيَةُ (المؤزوی) ج مَرَاوٍ وَ مَرَاوِي: جانور پر جو بھاندھنے کی رشتی۔

الرؤاء: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔

الرؤاء: خوشنالی۔ چہرہ کی رونق۔ کہا جاتا ہے "رِخْلٌ لَهْ رِوَاءٌ" مرد کو اس کے چہرہ پر رونق ہے۔

الزواویۃ۔ حدیث یا اشعار کو نقل کرنے والا تا ماہلغ کے لیے ہے۔ ج زَوَاوِیَا: جانور جس پر پانی لا کر لایا جائے۔ پانی کی پکھال۔

الزَوِیَّةُ وَالِإِزْوِیَّةُ۔ پہاڑی بکری۔ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ ج اَزْوِی وَاَزْوِی۔

یَوْمُ (التَّزْوِیَةِ) ماہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ۔ اس وجہ سے کہ اس تاریخ میں عرفات میں جانے کے لیے اونٹوں کو پانی پلایا کرتے تھے یا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تاریخ میں اپنے خواب کے معاملہ میں غور و فکر کیا تھا۔

رَابِعٌ یُرِیْبُهُ زَبْنًا۔ شک یا تممت میں ڈالنا۔ کسی سے کوئی ناپسند بات دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا یُرِیْبُهُ أَحَدٌ یَسْتَشِی" فلاں کو کوئی کسی چیز سے قلق میں نہیں ڈال سکتا۔

أَرَابَةٌ إِزَابَةٌ۔ شک میں ڈالنا۔ قابل شک ہونا۔ بے قرار کرنا۔ الزَّجْلُ الْأَمْتُ: قابل شک ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَرَابَهُ مِنْهُ أَمْتُ" یعنی اس نے اس کے ساتھ بدگمانی کی اور تممت کا یقین نہیں کیا۔

تَوَرَّیْتُ تَرَّیْتُ۔ منہ: خوف کرنا ڈرنا۔ یہ: کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔

إِزْقَابٌ إِزْقَابًا۔ مِنَ الشَّئِ: شک کرنا۔

یُفْلَانُ: تممت لگانا۔

اسْتَوْرَابٌ اسْتِوْرَابَةٌ۔ شک میں پڑنا۔ یہ: کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔

الزَّیْبُ۔ تممت۔ شک۔ حاجت۔

زَبْنٌ الْمُنُونُ گردش زمانہ۔

الرَّیْبَةُ۔ شک و تممت۔ بے قراری۔ بے کلی۔

ج رَبِّ۔

أَمْتُ (رَبِّ) ذُرَّانٌ وَالْإِسْمَاعِلُ۔

زَاثٌ یُرِیْبُ زَبْنًا وَتَوَرَّیْتُ۔ تاخیر کرنا، دیر کرنا۔ زَبْنٌ۔ کھلنا۔ کہا جاتا ہے "زَبْنٌ عَشَاكَانَ عَلَیْهِ" یعنی جس معاملہ میں وہ تمھاس میں کو تابی کی۔ الشَّئِ: نرم کرنا۔

أَرَابَةُ إِزَابَةٌ۔ دیر کرنا۔

اسْتَوْرَابَةٌ اسْتِوْرَابَةٌ۔ دیر کرنے والا پانا۔ دیر کرنے والا سمجھنا۔

الزَّیْبُ۔ مقدار۔ مہلت۔ کہا جاتا ہے "وَقَفَّ (زَبْنًا) صَلَّیْنَا" جب تک ہم نے نماز پڑھی وہ ٹھہرا رہا۔ و "مَا قَعَدْتُ عِنْدَهُ إِلَّا زَبْنٌ أَغْفَدُ یَسْتَعْنِ" میں اس کے پاس تسہ باندھنے کی مقدار بیٹھا۔ یہاں لفظ ریث بفریاد کے اور فعل مضارع بغیر ان کے مستعمل ہے جیسے کہ یُرِیْبُ یَفْعَلُ بجائے یُرِیْبُ یَفْعَلُ کے ہے۔

الزَّیْبُ۔ ست۔ دیر کرنے والا۔ زَجَلٌ (مَوْرِیْتُ) الْعَیْنِیْنِ: کمزور نظر والا۔

زَاخٌ یُرِیْبُ زَبْنًا وَزَبْحَانًا وَزَبْحًا۔ ذلیل ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔

رَبَّیْحَةٌ۔ کمزور کرنا۔

العَرَبِیُّخ۔ سیبگ کے اندر کی نرم چھوٹی ہڈی۔ ج اَمْرِیْحَةٌ۔

الزَّیْدُ۔ پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا کنارہ۔ ج زَبْوَدُ۔

رَبِیْعٌ (رَبِیْعَةٌ وَرَادَةٌ وَرَبِیْعَةٌ) نرم ہوا۔

رَبِیْعٌ الْقَوْمِ: ارزانی و فراخ سالی میں پینچنا۔

رَبِیْعٌ الْقَوْمِ: جو ناپا عتاب ہونا۔ زَبْرَتُ الْجَلَادِ: ارزانی و فراخ سالی والے ہونا۔ زَبْرَتُ الْقَوْمِ: ارزانی و فراخ سالی میں پینچنا۔

الزَّوْبُ۔ رال جو بچے کے منہ سے نکلے۔ (الزَّوْبُ وَالرَّوْبُ وَالزَّارُ) ہڈی کا مغز جو لاغری کی وجہ سے پھل چکا ہو۔

الزَّوْبَةُ۔ زانو کی ہڈی کا مغز۔

زَاثٌ یُرِیْبُ زَبْنًا وَزَبْحَانًا۔ ٹھیکر نہ چال چلنا۔ الشَّئِ: کسی چیز کی پوری حفاظت کرنا۔

الْقَوْمُ: ہرگز ہونا، غالب ہونا۔

الزَّیْسُ۔ سردار قوم۔

زَاثٌ یُرِیْبُ زَبْنًا۔ مال و متاع جمع کرنا۔

ہ: کھلانا۔ پھلانا۔ مدد کرنا۔ غنی بنانا۔ ہ مَالًا: دینا۔

مِنْ حَالِهِ: درست کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا یُرِیْبُ وَلَا یَبِیْرُ" فلاں نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ فائدہ و "لَا تَوْرُسُ عَلَیْ" میری ننگو میں دخل مت دو۔ () وَاَزَاثٌ وَرَبَّیْحٌ

السَّهْمُ: ہر لگانا۔ زَبْنٌ السَّهْمُ فُلَانًا: کمزور کرنا۔

إِزْقَابٌ۔ السَّهْمُ: تیر میں ہر لگانا () وَتَرَّیْبٌ۔ خوش حال ہونا۔

الرَّیْبُ۔ پندے کے پر۔ واحد (رَبِیْعَةٌ) ج

رَبَّاشٌ وَأَزْبَانُ۔ الرِّیْبُ: لباس فاخرہ۔ متاع فاخرہ۔ مال۔ سرسبز۔ معاش۔

الرَّوْاشُ۔ پندے کے پر۔ ج اَزْبَانُ۔ جَمَلٌ رَاثٌ: کمزور اونٹ۔ زَجَلٌ رَاثٌ: بالدار مرد۔

رُبْعٌ رَاثٌ: کمزور نیزہ۔ ظَلِیْرٌ رَاثٌ: پرنده جس کے پر نکل آئے ہوں۔ مَوْنُثٌ رَاثٌ: کھلا (رَبَّیْبٌ وَرَبَّیْبٌ) بہت پتیوں والی گھاس۔

الرَّیْبُ۔ کان یا چہرہ پر بکھرتا بال۔

الرَّیْبَانُ۔ مِنَ التَّوْفِی: کانوں پر بکھرتا بال والی اونٹنی۔

الرَّیْبَانُ۔ عمدہ لباس و سامان۔ سرسبز۔ معاش۔ مال۔

الرَّیْبَانُ۔ تیروں پر لگانے والا۔

الرَّیْبَانُ۔ فا۔ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے کا بچہ لیا۔ پر دار تیر۔

الرَّیْبَانُ۔ کانوں یا چہرہ پر بہت بال والا۔ مَوْنُثٌ زَبْنًا ج رَبَّیْبٌ وَزَجَلٌ أَرَبٌ: مال و لباس والا مرد۔

الرَّیْبَانُ وَالرَّیْبَانُ۔ مِنَ السَّهْمِ: پر لگانا ہوا تیر۔ وَالرَّیْبَانُ وَالرَّیْبَانُ: پر لگانے والی چادر۔ الرَّیْبَانُ: بہت بالوں والا، کم گوشت والا۔ کمزور پیٹھ والا۔

الرَّیْبَانُ مِنَ الرِّجَالِ: سر میں شاہی اعزاز کا پر لگانے والا۔

الرَّیْبَانَةُ۔ ایک پاٹ کی چادر۔ ہر کپڑا جو چادر کی مانند ہو۔ کفن۔ ج زَبْنٌ وَرَبَّیْبٌ۔

الرَّیْبَانَةُ۔ ایک پاٹ کی چادر۔

زَاخٌ یُرِیْبُ زَبْنًا وَزَبْحَانًا وَرَبَّیْبًا۔ الشَّئِ: نشوونما پانا۔ زائد ہونا۔ الزَّرْعُ: کھیتی کا بڑھنا () زَبْنًا (السَّهْمُ): سرب کا کبھی ظاہر ہونا کبھی ناپید ہونا۔ ہنہ: ڈرنا۔

عَنْهُ وَإِلَیْهِ: واپس آنا۔ کہا جاتا ہے "هَرَبْتُ الْإِبِلَ فَصَاحَ بِهَا الرَّاعِی فَرَاغَتْ إِلَیْهِ" اونٹ بھاگ پڑے اور چرواہے نے آواز دی تو سب اس کے پاس واپس آ گئے۔ و "فَلَانٌ لَا یُرِیْبُ لِكَلَامِكَ" فلاں تیری بات نہیں مانتا۔

زَبْنٌ۔ جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھانا اور زیادہ

رَبَّیْبٌ۔ جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ

رَبَّیْبٌ۔ جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ

رَبَّیْبٌ۔ جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ

رَبَّیْبٌ۔ جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ

رَبَّیْبٌ۔ جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ


رَبَّیْبٌ۔ جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ

رَبَّیْبٌ۔ جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ

یاد رکھنا کہ ہمیشہ گھرا رہنا۔
 الزیم۔ مہ۔ زیادتی۔ تم کہتے ہو "فنی هذا العبدل زیم علی الآخر" اس گھمڑی میں دوسری سے زیادتی ہے۔ چھوٹی پہاڑی۔ قبر۔ قبر کا درمیان۔ تاریکی پھیلنے تک دن کا آخری حصہ۔ وقت کا سبب۔ میڑھی۔ ذبح شدہ جانور کی ہڈی جو تقسیم کے بعد بیچ جائے اور قصائی کو دیدی جائے۔ (والریم) خالص سفید اونٹنی۔
 زان یزین زینا و زینا۔ الشئی فلانا و علیہ وہ: غالب ہونا۔ تم کہتے ہو "زان ہوا علی قلبہ" اس کی خواہشات اس کے دل پر غالب آئیں۔ زانت لنفسہ: جی متلا۔ زان الموت علیہ وہ: موت کا آجانا۔
 رین۔ وہ: لاغیل مشکل میں پڑنا۔ مرنا۔ غم میں جلا ہونا۔
 آزان ازانة۔ القوم: ہلاک شدہ موسیٰ والی ہونا۔ صفت (مزینون)
 الزان۔ موزہ کی طرح جوتا۔
 الزین۔ میل کیل۔
 الزینة۔ شراب۔ ج زینات۔
 زجل (فرین) علیہ: شخص جس کے مال موسیٰ ہلاک ہو گئے ہوں۔
 زاہ یزینہ زینہا۔ الزجل: آنا جانا۔ آمد و رفت کرنا۔
 زینة تزینہا۔ آمد و رفت کرنا۔
 تزینة۔ السراب: سراب کا کبھی نمایاں کبھی ٹاپید ہونا۔
 آزی ازیانہ۔ الزیانة: جھنڈا گاڑنا۔ جھنڈا نصب کرنا۔
 زئی۔ الزیانة: جھنڈا بنانا۔
 الزیانة۔ علامت جو بچان کے لیے لگائی جائے۔ جھنڈا اور اس کی کنیت "أم الحزب" ہے اور یہ لواسے بڑا ہوتا ہے۔ ج زیانات و زانی۔
 الزی۔ مملکت ایران میں ایک شہر کا نام۔ نسبت کے لیے (الرازی)
 الری۔ خوش منظر۔ کہا جاتا ہے "لفلان ری حسن" فلاں خوش منظر ہے۔ عین (زیانة) بہت پائی والا چشمہ۔

الریف۔ سبزہ دار۔ پانی کے قریب کی زمین۔ ج ازیاف و زیوف۔ الریف: کھانے پینے میں وسعت۔ مکان (ریف) سرسبز جگہ۔ مؤنث ریفۃ۔ زاق یزین زینا۔ الماء علی وجہ الارض: سطح زمین پر پانی کا بہنا۔ الشئی: چمکنا۔
 السراب: سراب کا چمکنا اور نمایاں ہونا۔
 (ریقا و زینقا) بنفسہ: جان دینا۔
 ریفۃ۔ السراب: نمار منہ پانا۔
 ازیاف ازیافۃ۔ الماء: گرا نا۔
 تزین۔ السراب: سراب کا چمکنا اور نمایاں ہونا۔
 الزینق۔ مہ۔ باطل۔ پانی۔ حُبز زینق: بغیر سالن کے خشک روٹی (الزینق و الزینوق) من کل شئی: ہر چیز کا اول و افضل۔
 الریق۔ ج ازیاق و ریناق و الریقۃ) تھوک۔ کہا جاتا ہے "انی علی الریق" میں نمار منہ ہوں و "شربت علی الریق و علی ریق النفس او ریقۃ النفس" میں نے نمار منہ کیا۔ الریق: قوت بقیہ جان۔
 الزائق۔ فا۔ خالص۔ نمار منہ والا مفل۔ حُبز زائق: بغیر سالن کے خشک روٹی۔ الماء الزائق: وہ پانی جو نمار منہ پیا جائے۔
 الزینق۔ نمار منہ والا۔
 زان یزینل زینلا۔ الصیبی: بچے کے منہ سے لعاب بہنا۔ رال بہنا۔
 الریال۔ رال۔ منہ کا لعاب۔ چاندی کا ایک بڑا سکہ (اس کے معنی کے لحاظ سے دخیل ہے)
 رام یزیم زینما۔ حمل البعیر: بوجھ کا بھگ پڑنا۔ المکان و منہ: دور ہونا۔ طیمہ ہونا۔
 بالمکان: اقامت کرنا۔ عنہ: ہٹ جانا اور کہا جاتا ہے "ہا رام یفعل کذا" وہ ہمیشہ ایسا کرتا رہا اور یہ کان جیسا گھل کرتا ہے جیسے "اذا رمت منن لایزیم متینما"۔ بمعنی لایزال متینما۔ (ریقا و زینما) العزخ: زخم کا اگور باندھنا۔
 ریم۔ وہ: چھوڑ دیا جانا۔
 زیم تزیمنا۔ بالمکان: اقامت کرنا۔
 علی کذا: بڑھنا۔ السحابۃ:

کرنا۔
 ازیاع ازیاعۃ۔ الزرع: کھیتی کا بڑھنا۔
 اللہ الزرع: کھیتی کو بڑھانا۔ القوم: بڑھی ہوئی کھیتی والی ہونا۔ الیل: اونٹوں کا ست۔ بچوں والے ہونا۔
 تزینع۔ ٹھہرنا۔ بے قرار ہونا۔ حیران ہونا۔
 الصاء: بہنا۔ السراب: سراب کا کبھی ظاہر ہونا کبھی ٹاپید ہونا۔ القوم: اکٹھا ہونا۔
 ینداه بالجوہد: فیاضی کرنا۔
 استیواع استیواعۃ۔ حیران ہونا۔ ینداه بالجوہد: فیاضی کرنا۔
 الزینع۔ مہ۔ سراب کی اضطرابی کیفیت۔ خوف۔ من کل شئی: ہر چیز کا اول و افضل۔ من الصخی: جاہت کے وقت کی روشنی و چمک۔
 من الذرع: دامن و آستین کی زیادتی۔
 الزینع: ہر چیز کی زیادتی اور کہا جاتا ہے (لیس لہ ریع) اس کے لیے پیداوار نہیں۔
 الریع۔ بلند ٹیلہ۔ بلند جگہ۔ پہاڑ کا کاشادہ راستہ۔
 وادی کی بلندی سے پانی بہنے کی جگہ۔ عیسائیوں کا گرجا۔ کبوتروں کا برج۔ ج ریع و زینوع و ازیاع۔
 الریقۃ۔ بلند زمین۔ اکٹھی جماعت۔
 الزینان۔ من کل شئی: ہر چیز کا اول و افضل ارض (مویقۃ) سرسبز والی زمین۔
 منظر (فریع) سرسبز لانے والی بارش۔ ناقۃ (زینعانۃ و ہریاع) جلدی اور بہت دودھ والی اونٹنی۔
 زاع تزینع زینما۔ بھاننا۔
 ریع تزینما۔ التریذۃ: گھی میں تر ہونا۔
 تزینت۔ التریذۃ: گھی میں تر کرنا۔
 الریع۔ گردوغبار۔ مٹی۔
 المریع۔ خاک آلود۔
 زاف یزینف زینفا و ازیاف ازیافا و تزینف۔ سبزہ دار زمین آنا۔ زائف الماشیۃ: سبزہ چرنا۔
 زایف مزایفۃ۔ اللظنۃ: حسرت کے قریب ہونا۔
 ازیاف ازیافۃ و ازیاف ازیافا۔ المکان: سبزہ دار ہونا۔
 الزاف۔ شراب۔



زَاب (ف) زَابَا - وگدگاکے پینا۔ الذَّهْر
 پہ: زمانہ کا لٹنا۔ الماشية: موٹی ہانکنا۔
 يَحْضِلُهُ: بوجھ کھینچنا۔ وَاذْذَابُ اِزْذَابًا
 القزينة: منگ اٹھا کر تیز روڑنا۔
 زَابِرٌ: القزوب: کپڑے کارواں والا ہوتا۔
 القزوب: کپڑے سے رواں نکالنا۔
 الزئير والزؤير والزؤير: کپڑے کارواں۔ کہا
 جاتا ہے "فَهَبْتَ الْاَيَّامَ بِنَضْرَاقِهِ وَنَقَضْتَ
 زَيْتِيَه" زمانہ اس کی رونق کو لے گیا اور اس کے
 روئیں کو بھاڑ دیا۔ یعنی اس کا زمانہ پرانا ہو گیا۔
 زَابِقٌ: الشئ: پارہ کی قلعی کرنا۔
 الزئيق والزئيق: پارہ۔
 زَاَج (ف) زَاَجَا - پشہم: بھڑکانا۔ آسکانا۔
 ایک کو دوسرے پر مسلط کرنا۔
 زَاَدَةُ (ف) زَاَدَا وَزَاَدَا وَزَاَدَا - گھبرا
 زیتا۔
 الزؤد والزؤد: گھبراہٹ۔
 لَيْلَةٌ (مَزْوُودَةٌ): خوف و گھبراہٹ کی رات۔
 زَاَز (ف) ض) وَزَيَّر (س) زَيَّرَ اَوْ زَاَزَا وَتَزَاَزَا
 وَاَزَاَزَا اَزَاَزَا وَتَزَاَزَا - الأسد: شیر کا چنگھاڑنا۔
 صفت (زَيَّرَ وَزَاَزَا وَتَزَاَزَا)
 الفحل: آواز کو گڑگڑانا۔
 الزارة: زَارَ كَلَامَ مَرَّةٍ - جنگل، جھاڑی، باغ۔
 مِنَ الْاِبِلِ وَالْعَنَمِ: اونٹوں اور بکریوں کا گھنجان
 ریوڑ۔
 زَاَزَا: سر او دم اٹھا کر تیز چلنا۔ ہ: خوف
 دلانا۔ الشئ: ہلانا، حرکت دینا۔
 تَزَاَزَا: ڈر کر چھپنا۔ اپنے دونوں پلوؤں کو
 ہلاتے ہوئے چلنا۔ مئة: ڈر کر خاکساری
 کرنا۔ الشئ: ہلانا۔

زَاَط (ف) زَاَطَا - بہت شور مچانا۔
 زَاَفَةُ (ف) زَاَفَا - جلدی کرنا۔
 اَزَاَفَ اِزَاَفًا - عَلَيْهِ: ادھ مری کو مار ڈالنا۔
 اَزَاَفَهُ بَطْلُهُ: بوجھل کرنا کہ چل نہ سکے۔
 الزؤاف - جلدی کرنا۔ مَوْتٌ زؤَافٌ: جلدی کی
 موت۔
 زَاَك (ف) زَاَكَاْنَا - ناز سے چلنا۔
 قَرَاءَةٌ لَكَ تَزَاوُكًا: منہ شرم کرنا۔
 زَاَم (ف) زَاَمَا وَزَاَمَا - جلدی مرنا۔ خوب ڈٹ
 کے کھانا۔ ہ: گھبراہٹا۔
 ہ: البؤد: بیکپارہنا۔ لینی کلمتہ: ایسی
 بات کہنا جس کا حق یا باطل ہونا معلوم نہ ہو اور کہا
 جاتا ہے "مَا زَاَمَ بِحَرْفٍ" یعنی اس نے کچھ نہیں
 کہا۔
 زَيْمٌ زَاَمًا وَزَيْمٌ (س) زَاَمَا وَ اِزْوَامٌ - بہت
 گھبرانا۔ زَيْمٌ بَقْلَانٍ: چلانا۔ آواز دینا۔
 زَاَمَةٌ تَزَايِمًا: گھبراہٹ میں ڈالنا۔
 اَزَاَمَةٌ عَلَى الْأَمْرِ: کسی کام پر مجبور کرنا۔
 المجرح: زخم کا ایسے ہونے تک علاج کرنا۔
 المصوت (الزؤام): مکروہ موت۔ جلدی کی موت۔
 الزؤم: آنکھ۔ حسب۔ کہا جاتا ہے "طَعَنُوا فِي
 زَيْمَةٍ" لوگوں نے اس کی حسب کے متعلق طعن و
 تشفیج کی۔
 الزؤم: بہت خوفزدہ۔
 الزؤمة: حاجت۔ بہت کھانا پینا۔ ہوا۔ سخت آواز۔
 کلمہ۔ کہا جاتا ہے "مَا يَفْعَلُهُ زَاَمَةٌ" وہ اس کے
 ایک کلمہ کی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ الزؤمة مِنْ
 الطعام کھانے کا ذخیرہ جو کافی ہو۔
 الزؤان: ایک قسم کا دانہ جو عموماً گیہوں کے کھیت
 میں آگیا ہے اور گیہوں کے مشابہ، مگر اس سے کچھ

چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے نیم بہت
 آتی ہے۔ واحد (زؤانة)
 زَاَمِي (ف) زَاَمِيَا - تکبر کرنا۔
 اَزَاَمِي - فَلَا نَا بَطْلُهُ: بیعت بھر جانے کی وجہ
 سے حرکت پر قادر نہ ہونا۔
 زَب (ض) زَبِيْنَا - چرے اور کانوں پر بہت پال
 ہوتا۔ الشمس: آفتاب کا ڈوبنے کے
 قریب ہونا۔
 زَب (ن) زَبْنَا - القزينة: منگ بھرنا۔
 الحفيل: بوجھ اٹھانا۔
 زَبِيْتُ: الشمس: آفتاب کا ڈوبنے کے
 قریب ہونا۔ العتب: انگور خشک کرنا۔
 الزؤجل: زیادہ بولنے سے جھاگ آنا۔ کہا جاتا ہے
 "تَكَلَّمْتُ فَلَانًا حَتَّى زَبْتُ فَمُه" فلاں نے گفتگو
 کی یہاں تک کہ اس کے منہ سے جھاگ آنے
 لگا۔
 اَزَبْتُ اِزْبَاتًا - العتب: انگور خشک کرنا۔
 الشمس: ڈوبنے کے قریب ہونا۔
 تَزَوَّبْتُ - العتب: انگور خشک ہونا۔
 الزؤجل: غصہ سے بھر جانا۔ فِي الْكَلَامِ:
 زیادہ بولنے سے جھاگ لگانا۔
 اِزْدَبْتُ - اِزْدَبَاتَا القزينة: منگ کا بھر جانا۔
 الزؤب: مع۔ بالوں کی زیادتی و لمبائی۔
 الزؤبانية: ایک قسم کا بڑا چوہا جو سیرا ہوتا ہے اور
 چوری میں اس کی مثال دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں
 "أَسْرَقَ مِنْ زُؤَابِيَةٍ"
 الزؤب: خشک انگور یا انجیر بیٹنے والے کو
 "زُؤَاب" کہتے ہیں۔ سانپ کے منہ کا زہر۔
 الزؤبينة: زؤب کا واحد۔ ایک قسم کا زخم جو ہاتھ
 میں ہوتا ہے۔ منہ کے جھاگ۔ الزؤبستان: سانپ

<p>داؤد علیہ السلام کی کتاب۔ الزَّبُونُ۔ کھسی ہوئی چیز۔ قوی مرد۔ مصیبت۔ ظریف۔ ہوشیار مرد۔ کچڑ۔ الأزْبُونُ۔ بڑے کندھوں والا۔ ایذا رسان۔ مؤنث زَبُونَاءُ۔ ج زَبُونٌ۔ التَّبْوِزَةُ۔ زَبُونٌ کا مصدر۔ تحریر۔ کتابت۔ المِزْبُونُ۔ قلم۔ المِزْبُونُ۔ بڑے کندھے والا۔ أَرْضٌ (مِزْبُونَةٌ)۔ بہت بھڑوں والی زمین۔ اَسَدٌ (مِزْبُونَانِي)۔ بہت ایال والا شیر۔ بِنُو۔ (مِزْبُونُونَ)۔ کچھوں سے من بنایا ہوا کنواں۔ زَبْوَجٌ۔ الشَّمْسِيُّ۔ خوبصورت بنانا۔ مزین کرنا۔ آراستہ کرنا۔ الزَّبْوَجُ۔ نقش و نگار کی زینت۔ ہر خوبصورت چیز۔ سونا۔ سرخ پتلا ابدل۔ ج زَبْوَجٌ۔ الزَّبْوَجِدُ۔ زمرہ کے مشابہ ایک قیمتی پتھر زَبْوَجٌ۔ زَبْوَقٌ۔ الضُّوبُ۔ سرخ یا زرد رنگنا۔ الزَّبْوِقَانُ۔ پوری رات کا چاند۔ سبک داڑھی والا مرد۔ زَبْوَبٌ۔ غضبناک ہونا۔ گلست کھانا۔ الزَّبْوَبُ۔ لمبی کی مانند ایک جانور۔ ایک قسم کی کشتی۔ ج زَبَابٌ۔ زَبَبٌ (ض)۔ زَبَبٌ وَ زَبَبٌ۔ البَطُّ۔ بڑا کڑوا۔ الزَّبَابَةُ وَ الزَّبَابَةُ۔ بَطُّ۔ تَوْبَعٌ۔ بد خلق ہونا۔ غضبناک ہونا۔ جھگڑا ہونا۔ الزَّبَيْعُ۔ غصہ ور جھگڑا لو۔ الزَّبَوِيْعُ۔ حقیر۔ بہت قد۔ الزَّبَوِيْعَةُ۔ بولہ۔ اس کو اُمُّ زَبَوِيْعَةٍ اور اَبُو زَبَوِيْعَةٍ بھی کہا جاتا ہے۔ ج زَبَوِيْعُ۔ الزَّبَوِيْعُ۔ مصیبتیں۔ الزَّبَوِيْعَةُ۔ چرمی موزے یا جوتے کی نوک۔ الزَّبَوِيْعِيُّ وَ الزَّبَوِيْعِيُّ۔ بد خلق۔ الزَّبَوِيْعِيُّ وَ الزَّبَوِيْعِيُّ۔ شوخ چشم و بیباک مرد۔ زَبَعُو۔ الزَّبَعِيُّ۔ بد خلق۔ سخت۔ چہرے اور ابرو پر زیادہ بالوں والا۔ ماہہ مگر مجھ اور بقول بعض ایک جانور ہے جو اپنے سینگوں پر ہاتھی کو اٹھا لیتا ہے۔</p>	<p>عَنِ الزَّبِيدِ۔ خالص جھاگ سے علیحدہ ہو گیا۔ اس موقع پر بولتے ہیں جبکہ خبر مضمون کے بعد بھی بات معلوم ہو۔ الزَّبَادُ۔ ایک قسم کی خوشبو جو ایک جانور سے حاصل کی جاتی ہے اور یہ جانور لمبی کی مانند اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے اور اس جانور کو بھی الزَّبَادُ وَ مَسْتَوُزُ الزَّبَادِ اور قِطْطُ الزَّبَادِ کہا جاتا ہے۔ الزَّبَادُ۔ ایک قسم کی نباتات۔ وَ تَبَادُ اللَّيْنُ۔ غیر مفید چیز اور اسی سے مثل ہے "اِخْتَلَطَ الخَالِيزُ بِالزَّبَادِ" یعنی عمدہ ردی سے مل گیا۔ الزَّبَدِيَّةُ۔ مٹی کا پیالہ۔ ج زَبَادِيٌّ۔ المِزْبَدُ۔ کھن نکالنے کا آلہ۔ ج مِزْبَدٌ۔ المِزْبَدُ۔ فا۔ جھاگ چھیننے والا۔ بَحْرُ مِزْبَدٌ۔ جھاگ چھیننے والا سمندر۔ المِزْبَدِيْدُ۔ کھن والا۔ زَبْوَةٌ (ن) (ض)۔ زَبْوَانٌ۔ عَنِ الْأَمْرِ۔ کام سے منع کرنا۔ رُوْكُنًا۔ السَّنَابِلُ۔ جھجھکنا۔ الزَّبَجُلُ۔ پتھر مارنا۔ البِنَاءُ۔ عمارت کو ایک کے اوپر ایک بنانا۔ عَلِيْبِهِ۔ صبر کرنا۔ وَ زَبْرُو وَ زَبْرُو (الکِتَابُ)۔ لکھنا۔ زَبْرُو (ک)۔ زَبْرَاةٌ۔ بڑے جسم کا ہونا۔ صفت (زَبْرُو) أَزْبَرُ۔ الزَّبَجُلُ۔ دلیر ہونا۔ بڑے جسم کا ہونا۔ الكِنْبَشُ۔ موٹا کرنا۔ إِزْبَارًا زَبْرًا إِزْبَارًا۔ الكِنْبُ۔ کتے کے بال کھڑے کرنا۔ الشَّعْرُ۔ بال کھڑے ہونا۔ الزَّبَجُلُ۔ آمادہ شمرات ہونا۔ النَّبَاتُ وَ الزَّبْرُو۔ نباتات یا اوٹ کے بالوں کا آگنا۔ الزَّبْرُو۔ مہ۔ عقل۔ قوی۔ مضبوط۔ پتھر۔ تحریر۔ کلام۔ الزَّبْرُو۔ کتاب۔ ج زَبْرُوْدُ عقل۔ کہا جاتا ہے "عَالَهُ زَبْرُو" اس کو عقل نہیں۔ أَخَذَهُ (بِزَبْرِيْهِ) او بِزَبْرِيْهِ (بِزَبْرِيْهِ) یعنی اس نے اس کو پورالے لیا۔ الزَّبْرُو۔ بہت قوی۔ الزَّبْرُوَّةُ۔ لوہے کا بڑا ٹکڑا۔ کاندھا اور پیٹھ ایال (شیر وغیرہ کی) نالی۔ ج زَبْرُوْدُ زَبْرُو۔ الزَّبْرُوْرُ۔ فرشتہ۔ گروہ۔ کتاب۔ ج زَبْرُو۔ حضرت</p>	<p>یا کتے کی آنکھ کے اوپر دوسیا نقطے۔ اور اسی وجہ سے سانپ کو "ذَاتُ الزَّبِيْنِيْنِ" کہتے ہیں۔ الأَزْبُ۔ چہرے اور کانوں پر بہت بال والا۔ مؤنث زَبْنَاءُ۔ عام أَزْبُ۔ سر سبز اور زیادہ پیداوار والا سال۔ امثلہ عرب میں ہے "مِثْلُ أَزْبِ نَفْوَرٍ" یعنی چہرے پر بالوں والا اوٹ بد کنے والا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ بالوں کی زیادتی کے سبب سے اپنی دیکھی ہوئی چیز کو کچھ اور خیال کرتا ہے اور بد کہتا ہے۔ ذَاهِبَةٌ زَبْنَاءُ۔ بڑی مصیبت۔ الزَّبِيْنِيُّ۔ کشش بیچنے والا۔ جھگڑے ہوئے خشک انگوڑی۔ خشک انگوڑی شراب۔ المِزْبُ وَ المِزْبُ۔ فا۔ بہت مال والا۔ الزَّبَقْلُ۔ بہت قد۔ زَبْدٌ (ن) (ض)۔ زَبْدًا۔ کھن کھانا۔ السِّقَاءُ مٹک میں کھن نکلنے کے لئے بلوانا۔ زَبْدٌ (ض)۔ زَبْدًا۔ السَّوْفِيُّ۔ ستو میں کھن ملانا لُہُ۔ کھن دینا۔ زَبْدٌ۔ اللَّيْنُ۔ دودھ کے اوپر کھن آنا۔ شِدْقُهُ۔ چیز سے جھاگ لگانا۔ الضُّفْلُنُ۔ روٹی دھتلا۔ أَزْبَدُ۔ البَحْرُو او القُدْرُو او القَمُّ۔ سمندر یا ہاٹی یا منہ سے جھاگ لگانا۔ کہا جاتا ہے "أَزْبَعِي الزَّبَجُلُ وَ أَزْبَدُ" یعنی اس کا عین و غضب جوش میں آیا اور اس نے دھکی دی۔ الشَّمْسِيُّ۔ بہت سفید ہونا۔ السِّدْرُو وَ نَحْوُهُ۔ جھگڑا لگانا۔ تَزْبَدُ۔ الشَّدْقُ۔ چیز سے جھاگ لگانا۔ الزَّبَجُلُ۔ غضبناک ہونا اور دھکی دینا۔ الزَّبْدَةُ۔ کھن لینا۔ الشَّمْسِيُّ۔ خلاصہ لینا۔ خلاصہ نکالنا۔ لگانا۔ البَجِيْنُ۔ قسم کھانے میں جلدی کرنا۔ الزَّبْدَةُ وَ الزَّبْدُ۔ کھن۔ ج زَبْدُو وَ زَبْدَةُ الشَّمْسِيِّ۔ چیز کا عمدہ و افضل حصہ اور اِخْتَلَطَ زَبْدُهُ بِخَالِيْهِ ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے معاملہ میں حقیر ہو جائے۔ الزَّبْدُ۔ داد و دھش۔ الزَّبْدُ۔ ج أَزْبَادُو (الزَّبْدَةُ)۔ ج زَبْدُ۔ جھاگ۔ میل۔ اور اسی سے مثل ہے "صَرَخَ المَحْضَلُ"</p>
--	--	--

<p>الزَّبْنِي - جلدي - نشاط - ایک قسم کی چال۔ برائی پر معاملہ ج اَزَابِي۔ زَبْت (ن) زَبْتًا - آراستہ کرنا۔ تَزَوَّت - العزوفس: دلن کا آراستہ ہونا۔ زَبَح (ن) زَبْحًا - القواد: چھڑی لگانا۔ زَج (ن) زَجًا - دوڑنا: کسی کو نیزے کے پچھلے سرے کے لوہے سے مارنا۔ زَجَّة - بالو منج: کسی کو نیزہ مارنا۔ بالمشی: کوئی چیز پھینکانا۔ زَج (ض) زَجَجًا و زَوْجًا: حاجت: لمبی اور باریک ابرو والا ہونا۔ صفت (ازج) مؤنث زَجَاء ج زَج (لمبی بھوں کو بھی اَنج کہتے ہیں)۔ زَجَج - المحاجب: ابرو کو لمبی اور باریک بنانا المؤنث: درست و ہموار کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَقَر حَشْبَةَ نَم زَجَج مَوْجَع النقر" اس نے لکڑی کو کھودا پھر کھدی ہوئی جگہ کو ہموار کیا۔ اَزَج - الزومع: نیزے کا پچھلا حصہ لگانا۔ نیزے کا پچھلا حصہ لگانا۔ الزج: نیزے کا پچھلا ہوا اس کے مقابلے میں اوپر کا لوہا سنان ہے) مثل ہے "جَعَلَ الزَج فَدَام السنان" یعنی اس نے ادنیٰ کو اعلیٰ پر فضیلت دی۔ کسئی کی نوک - تیر کا پھل - ج زجاج و اَزَجَّة و زَجَجَة اور بھی الزجاج کو رماح کے معنی میں بھی مجازاً استعمال کرتے ہیں۔ الزجاج والزجاج والزجاج - شیشہ (زجاجة زجاجة زجاجة) شیشہ کا گلاب۔ شیشہ کا برتن۔ حَشْبَشَةُ الزجاج: ایک قسم کی گھاس جس سے شیشہ صاف کیا جاتا ہے۔ الزجاجي - شیشہ بیچنے والا۔ الزجاج - شیشہ بنانے والا۔ الزجاجية - شیشہ گری کا پیشہ۔ الزجاج - پھل لگے ہوئے چھوٹے نیزے۔ سردھائے ہوئے گدھے۔ الازج - لمبی پنڈلیوں والا۔ لمبے لمبے قدم والا شتر مرغ - مؤنث زَجَاء ج زَج۔ المزج - چھوٹا نیزہ۔ زَمَج (مَزَج) پچھلا ہوا نیزہ۔ المزجة - وہ چیز جس سے ابرو کو باریک اور لمبی</p>	<p>تَزَابِن - القوم: ایک دوسرے کو ہٹانا۔ الزبن - القوم: علیحدہ ہونا۔ کنارہ پر ہونا۔ تَزَبْنَة - زبردستی غلبہ کرنا۔ استزبنته - غالب ہونا۔ الزبن - مہ - بیت زبن: گھروں سے علیحدہ گھر۔ مقام زبن: تنگ مقام جہاں کھڑے نہ ہو سکیں۔ الزبن - گوشہ۔ الزبن والزبن: بہت دفع کرنے والا۔ زَبْنًا - التافة: اونٹنی کی دونوں ٹانگیں۔ الزبن - پیشاب پاشخانہ کو روکنے والا۔ الزبنة - سخت - جن و انسان میں سے سرکش۔ سپاہی ج زَبَانِيَة۔ الزبانية - عند الغروب: سپاہی - ان فرشتوں کو بھی کہتے ہیں جو گنگناروں کو ہانک کر جنم کی طرف لے جائیں گے۔ الزبون - من الثوق: دوھنے کے وقت بہت زانو مارنے والی اونٹنی۔ حَزْبٌ زَبُونٌ: سخت لڑائی۔ الزبون: بیوقوف غبی (اس معنی میں فصیح نہیں) الزبونة والزبونة: گردن اور کہا جاتا ہے "فِيهِ زَبُونَة" اس میں تکبر ہے۔ زبانى - العقرب: بچھو کا زنگ۔ زبانيا - العقرب: بچھو کے سر کی جانب وہ دونوں حصے جو آنکڑے کے مانند ہوتے ہیں۔ العزبانة - مہ - اندازہ سے بیچ کرنا۔ الزبتو - پست قدم - بد صورت و پست قدم بلاو صحبت۔ الزبتوى - بلا وقتہ۔ زبى (ض) زَبِيًا و زَوْبِي: ہ: اُحْثَا ہَا كُنَا۔ زبياه بشر: حسرت لگانا۔ اَزْبَاهُ اَزْبَاءٌ - اُحْثَا۔ زبى - فَلَئَا ہَا كُنَا اللحم: شکار کے گڑھے میں گوشت کبیرنا۔ زبى و تزبى: الزبنة: شکار کا گڑھا کھودنا۔ تزبى فی الزبنة: شکار کیلئے گڑھے میں چھیننا۔ تَزَابِي تَزَابِيًا - تکبر کرنا۔ الزبنة - دردوں کے شکار کا گڑھا۔ پست جس پر پانی نہ چڑھے۔ ج زبى - کہا جاتا ہے "بَلَع السنبُل الزبى" یعنی معاملہ بہت سخت ہو گیا۔</p>	<p>الزبوعى - لمبے پر والا تیر۔ زَبِي (ض) زَبْنًا - شغوفہ: بال اکھیرنا۔ ہ فی السبخن: قید کرنا۔ تنگی ڈالنا۔ ہ فی الشى: داخل کرنا۔ الشى بالشى: مخلوط کرنا۔ ملانا۔ الفقل: کالا کھولنا۔ العزاة لبو ليدھا: پھینک دینا۔ الزبى - فی التبت: گھر میں داخل ہونا۔ فی الحبال: جال میں پھنسا۔ چھیننا۔ الزبونة - من التبت: مکان کا گوشہ۔ الازبى: بیوقوف جو اپنی حماقت کی وجہ سے اپنی داڑھی کے بال نوپے۔ المزبونة والزبنة - من اللحمى: نوچی ہوئی داڑھی۔ زَبَل (ض) زَبَلًا و زَبَلًا - الأرض: زمین میں کھاد ڈالنا۔ و اَزَبَل الشى: اُحْثَا۔ الزابل والزابل: پست قدم۔ الزبال والزبال: وہ چیز جس کو چوٹی منہ میں اُٹھا کر لے جائے۔ کہا جاتا ہے "مَا أَصَاب مِنْهُ زَبَالًا" اس نے اس سے کچھ نہیں پایا۔ الزبل والزبل و الزبيل - گور کھاد۔ الزبيل والزبيل: خشک کدو اندر سے خالی جس میں عورتیں روٹی وغیرہ رکھتی ہیں۔ الزبلة - لقمہ۔ الزبالة - تھوڑا پانی - کہا جاتا ہے "مَا لى البئر زبالة" کوئیں میں تھوڑا پانی نہیں ہے۔ الزبيل - ج زَبَل و زَبَلان و (الزبيل) ج زَبَابِيل و (الزبيل) و (الزبيل) ج زَبَابِيل - نوکرا - برتن - توشہ دان۔ العزبلة و المزبلة - کوڑا خانہ - ج مَزَابِيل۔ زَبْنَة (ض) زَبْنًا - دفع کرنا۔ ٹکر لگانا۔ علیحدہ کرنا۔ زَبْت التافة: اونٹنی کا دوھنے کے وقت زانو سے مارنا۔ کہا جاتا ہے "زَبْن عَشَاء مَعزوفة" اس نے ہم سے بہتر سلوک کو روک لیا۔ زَبْن العنق: درخت پر پھل بیچنا۔ اَزَبْن - يَبْتَه عَنِ الظربى: راستہ سے ہٹ کر علیحدہ مکان بنانا۔ زَابَنَة مَزَابِنَة - ایک دوسرے کو ہٹانا۔ ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ درخت پر پھل بیچنا۔</p>
--	---	---

مَوْنَتْ زَا حِفَّةً جَزَا حِيفٍ وَ (زَحُوفٍ) جَزَحُفٍ _____ السَّهْمُ: تیر کا نشانہ سے ورے گرا پھر گھٹ کر نشانہ کو لگتا۔ صفت (زَا حِيفٍ) جَزَا حِيفٍ۔
 اَزْحَفَ: اپنے انتہائی مطلوب پر پہنچنا۔ ہ
 طَلُوْلُ السَّفَرِ: تھکا دینا۔ _____ البَعِيْثُ: اونٹ کا ٹھکانا۔ _____ الرَّجُلُ: ٹھکے ہوئے اونٹ یا گھوڑے والا ہوتا۔ اَزْحَفَ بَنُو فُلَانٍ: بڑا لشکر بنا۔
 زَا حِفْنَا هُمْ: ایک دوسری کی طرف گھسنا۔
 تَزَحَفَ وَ اَزْحَفَ: اَلِيْهَ: چلنا۔
 تَزَا حِفَ: القَوْمُ فِي الْحَزْبِ: بعض کا بعض کی طرف جانا اور قریب ہونا۔
 الزَّحْفُ: مہ۔ بڑا لشکر جو دشمن کی طرف جائے۔ جَزُ حُوفٍ۔
 الزُّحْفَةُ: قریب قریب کا سفر کرنے والا۔ جو دور نہ جائے۔
 الزَّحَا فِ: فِي الْعُرُوْضِ: علم عروض کی اصطلاح میں وہ تغیر جو سبب خفیف یا ثقیل کے دوسرے حرف میں واقع ہو۔
 الزَّحَا فِ: گھسنے والا۔ مَوْنَتْ زَحَا فَةٍ۔
 الزَّحَا فَاتِ مِنَ الْحَيَاتِ: ریگنے والے جانور۔
 الْمَزْحَفُ: گھسنے کی جگہ۔ جَزَا حِيفٍ۔
 مَزَا حِيفُ الْحَيَاتِ: سانپوں کے ریگنے کی جگہ۔
 مَزَا حِيفُ السَّحَابِ: قطرہ گرنے کی جگہ۔
 بَعِيْثُ (مَزْحَا فٍ) اُونٹ جس کو ٹھک جانے کی عادت ہو۔ جَزَا حِيفٍ وَ مَزَا حِيفٍ۔
 زَحَكَ (ف) زَحَكَ: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
 مِثْنُ: قریب ہونا۔ _____ عَنَّةٌ: بعید ہونا۔
 _____ البَعِيْثُ: اونٹ کا ٹھکانا۔
 اَزْحَكَ: ٹھکے ہوئے جانور والا ہونا۔
 زَا حِكَةً: عَنِ نَفْسِهِ: دور کرنا۔
 تَزَا حَكَ: القَوْمُ: ایک دوسرے سے بعید ہونا۔ ایک دوسرے سے قریب ہونا (شد)
 زَحَلَ (ف) زَحُولًا: عَنِ مَكَانِهِ: زائل ہونا۔
 دور ہونا۔ علیحدہ ہونا۔ صفت (زَا حِيفٍ وَ زَحَلَ)۔
 زَحَلَ (ف) زَحَلَ: ٹھکانا۔
 اَزْحَلَهُ اِلَيْهِ: پہنچا لینا۔

اَزْحَلَهُ وَ زَحَلَهُ: دور کرنا۔
 تَزَحَلَ: عَنِ مَكَانِهِ: علیحدہ ہونا۔ دور ہونا۔
 زَحَلَ: ایک سیارہ کا نام جس کو بلندی اور بعد کے لیے بطور مثال کے بیان کرتے ہیں۔
 وَ زَجَلَ زُحَلًا: کام سے علیحدہ رہنے والا خواہ اچھا کام ہو یا بُرا۔
 الزُّحَلَةُ: کلاہوں سے علیحدہ رہنے والا۔ قریب قریب کا سفر کرنے والا۔ اپنے سوراخ میں دم کی طرف سے داخل ہونے والا جانور۔ فَسَا فَةٌ (زَحُولٍ) دور کی مسافت۔
 الزَّحْلِيْلُ: تیز۔ علیحدہ رہنے والا۔
 وَ الزُّحْلُوْلُ: ٹھک پھسلنے کی جگہ۔ الزُّحْلُوْلُ: پٹکے پھسلنے کی جگہ۔
 الْمَزْحَلُ: وہ جگہ جہاں کہیں سے علیحدہ ہو کر جائیں۔ زَحَلَ كَامَصْرٍ مِثْلِيْ: کہا جاتا ہے "اِذَا لَمْ يَكُنْ عَنِ سَفَرَةِ السَّيْفِ مَزْحَلًا" جبکہ تلوار کی دھارس سے علیحدہ ہونے کی جگہ نہ ہو۔
 زَحْلَفَ: الشَّيْءُ: لاهٹانا۔ علیحدہ کرنا۔
 الْاِنَاءُ: برتن کو بھرنا۔ زَحْلَفَ فِي الْكَلَامِ: جلدی جلدی بولنا۔
 تَزَحْلَفَ: لاهٹنا۔ علیحدہ ہونا۔
 تَزَحْلَفَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا مائل بغروب ہونا۔ دوپہر میں ڈھلنا۔
 الزُّحْلُوْفَةُ: چکنی ڈھلوان جگہ جس پر لڑھکا جائے۔ جَزَا حِيفٍ وَ زَحَالِفٍ۔
 الزَّحَا لِفُ: چھوٹے چھوٹے کیڑے جو چیونٹی کے مشابہ ہوتے ہیں۔
 زَحَلَقَ وَ زَحَلَقَ وَ تَزَحَلَقَ وَ تَزَحَلَقَ وَ الزُّحْلُوْفَةُ وَ الزُّحْلُوْكَةُ: بمعنی زَحْلَفَ وَ تَزَحْلَفَ وَ الزُّحْلُوْفَةُ: لمبے تختے کا جھولا جس کے دونوں جانب بیٹھ کر چھولیں۔
 الزَّحْلُوْقُ: تیز و تند ہوا۔
 زَحَمَةٌ (ف) زَحَمًا وَ زَحَامًا: ٹنگی کرنا۔ بھیڑ کرنا۔
 زَا حَمَةٌ: ٹنگی کرنا۔ زَا حَمَ الحَفْسِيْنَ: قریب ہونا۔
 اَزْدَحَمَ وَ تَزَا حَمَ: القَوْمُ: ایک دوسرے پر

ٹنگی کرنا۔ ایک دوسرے کو دھکیلنا۔
 الْأَمْوَاجُ: موجوں کا آپس میں ٹکرائنا۔
 الزَّحْمُ: مہ۔ بھیڑ کرنے والے لوگ۔
 الزُّحْمَةُ: بھیڑ۔ ٹنگی۔
 الزَّحَامُ: مہ۔ يَوْمَ الزَّحَامِ: قیامت کا دن۔
 الْمِزْحَمُ: بہت بھیڑ کرنے والا (أَبُو مَرْجَمٍ) ہاتھی۔
 زَحَمَوُ الْقِرْبَةَ: ٹھک بھرنا۔
 زَحَنَ (ف) زَحْنًا: دیر کرنا۔ _____ ہ عَنِ الْمَكَانِ: دور کرنا۔
 تَزَحَنَ: دیر کرنا۔ مِثْلًا: عَنِ مَكَانِهِ: بلنا۔
 _____ عَلَى الشَّيْءِ وَ عَنَّةٌ: ناپسندیدگی کے باوجود کرنا۔
 زَجَلَ زَحْنًا: پست قدم۔ مَوْنَتْ زَحْنَةً۔
 الزَّحْنَةُ: سخت گرمی۔ مع ساز و سلیمان کے قافلہ۔ کہا جاتا ہے "لَهُمْ زَحْنَةٌ" ان لوگوں کے لیے دیر کا کام ہے۔ "وَ لَكُ زَحْنَةٌ نَعْدُ" جب کہ سفر کا ارادہ کرے اور کوئی کام نکل آئے جس سے تاخیر ہو جائے۔
 الزُّحْنَةُ: دای کا موڑ۔
 زَحَ (ن) زَحَا: غھبناک ہونا۔ بِالْأَيْلِ: اونٹوں کو تیز چلانا۔ _____ ہ: گڑھے میں دھکیلنا۔
 الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔
 زَحَ (ن) زَحَا وَ زَحِنَعَا: الْحَمْرُ: چنگاری کا تیز چلنا۔
 الزَّحُ: مہ۔ كَيْدٌ: غمّہ۔ غمّہ۔ غضب۔
 الزُّحَّةُ: كَيْدٌ: غمّہ۔ غضب ()۔
 وَ الْمَرْحَةُ وَ الْمَرْحَةُ: ہوی۔
 زَحْرَخَ الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔
 زَحَرُ (ف) زَحْرًا وَ زَحْرُوْرًا وَ تَزَحْرَا: البَحْرُ: دریا کا چڑھنا اور موج مارنا۔
 الْوَادِي: لمبی اور پانی سے بھری ہوئی ہونا۔
 الْبَيْتَاتُ: نباتات کا لمبا ہونا۔
 الْقَوْمُ: جنگ یا روانگی جنگ کیلئے پر جوش ہونا۔
 الْحَزْبُ أَوْ الْقِدْرُ: جوش مارنا۔
 ہ: بھرنا۔ موٹا کرنا۔ آراستہ کرنا۔ خوش کرنا۔
 بِمَاعْنَدَهُ: فخر کرنا۔
 زَا حَزْرَةً: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے

الزَّرَّةُ - دانت کے کائے کا نشان - عقل۔
 الزَّرَاةُ - ہر وہ چیز جو پورا پر پھینکی جائے اور وہ اسے چمت جائے۔
 الزَّرْدَارُ وَالزَّرْبُ - سرب الفسم - تیز خاطر۔
 الزَّرْبُوتُ - ایک قسم کی گھاس جو رنگے کے کام میں آتی ہے۔ واحد (زَّرْبُوتَة)
 الزَّرَاةُ - جانوروں کو کھنے والی کھسی۔
 حِصَاةُ (مَزْرُ) دانت سے کائے والا گدھا۔
 زَرَامٌ اِزْرَامٌ اِزْرَامًا وَاِزْرَامًا - اِزْرَامًا - کلاہٹ اور ذمہ اور بولہ: گفتگو یا خون یا پیشاب کا منتقع ہونا۔
 زَرَبٌ (ن) زَرَبًا - المَوَاشِي - جانوروں کو بازے میں داخل کرنا۔ اَلْيَقْتِمُ: بکریوں کے لیے بازہ بنانا۔
 زَرَبٌ (س) زَرَبًا المَاءُ پانی کا برتا۔
 اِزْرَبٌ - بازہ میں داخل ہونا۔
 اِزْرَبٌ - التَّبَاتُ - نباتات کا زرد ہونا۔ سبزی ملی ہوئی سرخ ہونا۔
 الزَّرْبُ - مہ - داخل ہونے کی جگہ - شکاری کے چھپنے کی جگہ (وَالزَّرْبُ) بازہ - ج زَرْبٌ
 الزَّرْبُ - پانی بننے کی جگہ۔
 الزَّرَابُ - جِنْدُ العَامِيَةِ - لمبی پتی گلی - فصیح لفظ الزَّرْبُ ہے۔
 الزَّرْبِيُّ وَالزَّرْبِيَّةُ - سمنڈ - گدے کی عملی نمالچہ - ہر وہ چیز جو بچھائی جائے اور اس پر ٹیک لگائی جائے۔ مِنَ التَّبَاتِ - گھاس جو زرد ہو یا سبزی آمیز سرخ ہو۔ ج زَرَابِيَّةُ۔
 الزَّرْبِيَّةُ - جی حضور۔
 الزَّرْبِيَّةُ - بازہ - شیر کی بھائی - شکاری کے چھپنے کی جگہ۔ ج زَرَابٌ وَزَرَابِيَّةُ۔
 المِزْرَابُ - پر نالہ۔ ج مِزْرَابِيَّةُ۔
 الزَّرْبُونُ - جوتا۔
 زَرَبٌ (ف) زَرَبًا - گھاگھوٹنا۔
 زَرَبْتُهُ - قریب دینا۔ القَوْمُ - شرکاء مکان میں سے کسی کامکان لینا اور کسی کا زمین۔
 الزَّرْبُونُ - انگوڑ کی شنبلیاں۔ واحد۔
 (زَرَبُونَةٌ) ایک قسم کا سرخ رنگ۔ شراب

أَزْدَرٌ - لوٹنا۔ (أَصْدَرٌ میں ایک لغت ہے)
 الْأَزْدَرَانُ - دونوں مونڈھے۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ يَصْطَرِبُ أَذْرَبِيَّةً" یعنی وہ خالی ہاتھ آیا۔
 إِزْدَرَمٌ - لگانا۔
 زَدَعٌ (ف) زَدَعًا - المِزْرَاةُ - جماع کرنا۔
 المِزْدَعُ - کاموں کو جلدی سر انجام دینے والا۔
 تَزْدَعٌ - تکیہ لگانا۔ تکیہ بنانا۔
 المِزْدَعُ - تکیہ (مضدغ میں ایک لغت ہے)
 أَرْدَفٌ - اللَيْلُ - تاریک ہونا۔ اَسْدَفٌ میں ایک لغت ہے)
 الزَّرْدِقُ - سچائی (الصدق میں ایک لغت ہے)
 زَدَانٌ (ن) زَدَوًا - الضَّبِيُّ المَجْوُزُ وَبِالْمَجْوُزِ: سچے کا خروٹ کو گڑھے میں پھینک کر کھینا۔
 المِزْدَاةُ وَالمِزْدَاءُ - اخروٹ سے کھینے کا گڑھا۔
 أَرْدَى اِرْدَاءً - سلوک کرنا۔ بھلائی کرنا۔
 زَرْدٌ (ن) زَرْدًا - القَمِيضُ - کرتے میں گھنڈی لگانا۔
 بِنٌ لگانا۔ الشَّيْءُ - جمع کر کے باندھنا۔
 المِصْطَاعُ: سلمان کو بھاڑنا۔ الزَّرَجُلُ: دھسکارنا۔ دانت سے کائنا۔ زَرْدَةٌ بِالرُّمَحِ: نیزہ مارنا۔
 الشَّعْرُ: بال اکھیرنا۔ نوچنا۔ عَيْنُهُ: آنکھ ٹھک کرنا۔
 زَرْدٌ (س) زَرْدًا - الزَّرَجُلُ: گھنڈی لگانا۔ اپنے مخالف پر سختی کرنا۔ عقل و تجربہ بڑھانا۔
 زَرْدٌ (ض) زَرْدًا - بَسْنَانُ الرُّمَحِ: نیزے کے پھل کا چکینا۔ العَيْنُ: آنکھ چمکنی ہونا۔
 أَرْدَى - القَمِيضُ: بِنٌ لگانا۔
 زَرْدٌ - قَوْبِيَّةُ: بِنٌ لگانا۔ بِنٌ بنانا۔
 تَزَرَّرَ - القَمِيضُ: بِنٌ لگانا ہونا۔
 الزَّرْدُ - گھنڈی۔ بِنٌ - ج اَزْرَارٌ وَزُرُورٌ - ول کے نیچے کی چھوٹی ہڈی۔ گڑھا جس میں شانے کی ہڈی گھومتی ہے۔ سرین کا وہ کنارہ جو گڑھے میں ہے۔
 خِمْرٌ کی گڑیوں میں سے ایک گڑی زَرْدُ السَّيْفِ: تلوار کی تیزی۔ زَرْدُ الشَّيْءِ: وہ چیز جس پر کسی چیز کا مدار ہو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ زَرْدٌ مَالٌ" وہ مال کے مصالح کا جاننے والا ہے۔ و"أَعْظَاهُ الشَّيْءُ بِنَزْرَةٍ" اس نے اس کو ساری چیزوں سے دی۔ و"جَاءَ فَلَانٌ بِنَزْرَةٍ" فلاں گھص بڑاتا آیا۔
 الزَّرْدَةُ - دانت کا کائنا۔ تلوار کی دھار کا زخم۔

"زَاخُوهُ فَرَاخُوهُ" اس نے اس سے فخر کرنے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔
 تَزَخَّرَ - البَحْرُ أو الوَادِي: دریا یا وادی کا چڑھنا اور موج مارتا۔
 تَزَخَّرَ - بِمَا عِنْدَهُ: فخر کرنا۔
 الزَّاخِرُ - فَا - کریم - شرماء - بھرا ہوا۔ چھلکنے والا۔
 مِنَ الشَّرَفِ: بلند عزت۔
 زَوَاخِرُ الوَادِي: وادی کی گھاس۔
 الزَّاخِرُ - زَخْرٌ کا اسم مبالغہ۔
 نَبَاتٌ (زَخْوَرٌ وَزُخْرِيٌّ وَزُخْرِيٌّ) لِبَاوِ مِجْمَانٍ پودہ۔ زُخْرِيٌّ التَّبَاتِ: پودہ کی تروتازگی جبکہ مِجْمَانٌ ہوا اور گھونڈ نکل آئے۔ کہا جاتا ہے "قَدْ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرًا مِثْمَا" جبکہ زمین کی نباتات لمبی و طویل ہو جائے۔ کلام زُخْرِيٌّ: شکر پرانہ دھکی آمیز گفتگو۔
 الزُّخْرِيَّةُ - لمبا۔
 زَخْوَفٌ - خوبصورت بنانا۔ آراستہ کرنا۔ مزین کرنا۔ الكَلَامُ: جھوٹ سے آراستہ کرنا۔
 تَزَخَّوْفٌ - الزَّرَجُلُ: مزین ہونا۔
 الزُّخُوفُ - سونا۔ چیز کی خوبصورتی۔
 زُخُوفٌ الكَلَامُ: جھوٹ سے آراستہ کی ہوئی گفتگو۔ زُخُوفٌ الْأَرْضِ: زمین کے سبزی کے رنگ۔ ج زُخْرَافٌ - الزُّخْرَافُ: کشتیاں پانی پر اڑنے والے کبڑے۔ زُخْرَافٌ العَمَاءُ: پالی کے راستے۔
 زَخْفٌ (ف) زَخْفًا وَزَخْفِيًّا - تکبر کرنا۔
 زَخْفٌ - فِي القَوْلِ: بہت بولنا۔
 تَزَخَّفَ - مزین ہونا۔ آراستہ ہونا۔ خوبصورت بنانا۔
 المِزْخَفُ - فخر کرنے والا تکبر۔
 زَخْمَةٌ (ف) زَخْمًا - سختی سے ہٹانا۔
 زَخِمٌ (س) زَخْمًا وَزَخِمًا - اللُّخْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت (زَخِمٌ)
 إِزْدَخِمُ - الجَحْمَلُ: بوجھ اٹھانا۔
 الزَّخْمَةُ - بدبودار گوشت۔
 الزَّخْمَاءُ - بدبودار عورت۔
 الزَّرْبُ - حصہ۔ ج اَزْدَابُ۔
 زَرْدٌ - لوٹنا۔ (أَصْدَرٌ میں ایک لغت ہے)

النَّاقَةُ الرَّحْلُ: اونٹنی کا کجاوہ پیچھے کی جانب ڈال دینا۔

زَرَقًا (س) زَرَقًا الرَّحْلُ: ابدھا ہونا۔

عَيْنُهُ: نیلگوں ہونا _____ الشَّيْءُ: نیلگوں ہونا۔ آسمانی رنگ کا ہونا۔

أَزْرَقَتْ: عَيْنُهُ نَحْوِي: آنکھ کا پھرنا اور سفیدی کا ظاہر ہونا _____ النَّاقَةُ حَمَلُهَا: اونٹنی کا کجاوہ کو پیچھے کی جانب ڈال دینا۔

أَزْرَقَ إِزْرَاقًا وَإِزْرَاقًا إِزْرَاقًا: نیلگوں ہونا _____ عَيْنُهُ نَحْوِي: بمعنی اَزْرَقَتْ عَيْنَهُ: اِنزرقی۔ پیچھے ہٹنا۔ چت لیتنا۔ السَّهْمُ: آر پار ہونا۔

الزَّرَقُ وَالزَّرَقَةُ: آسمانی رنگ۔ نیلگوئی۔ الزَّرَقُ: کمر کے کچھ اوپر کی سفیدی۔ الزَّرَقَةُ: تعویذ کا سرہ۔

الزَّرَقُ: ایک شکاری پرندہ۔ جِ زَرَّاقٍ: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔ حِيزَ نِظَرِ وَالِا۔

الأَزْرَقُ: نیلگوں۔ مَوْنَتْ زُرْقَاءُ: جِ زُرُقٍ: الأَزْرَقُ: باز۔ نَصْلُ أَزْرَقٍ: چکیلا تیر کا پھل۔

مَاءُ أَزْرَقٍ: صاف پانی۔ عَدُوُّ أَزْرَقٍ: سخت دشمن (اور یہ اس وجہ سے کہ رومیوں اور دہلیویوں کی آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں اور ان میں اور عربوں میں سخت دشمنی تھی۔ اس وجہ سے ہر سخت دشمن کو عدو ازرق کہنے لگے) اور چونکہ نیزے اور ہمالے میں بھی نیلگوئی ہوتی ہے اس لیے ان پر بھی زرق کا اطلاق کرتے ہیں۔

الزَّرْقَاءُ: أَزْرَقُ كَالْمَوْنَتِ: جِ زُرُقٍ: شراب۔ آسان۔

الزَّرَقِيُّ وَأَبُو زُرُقٍ: چڑیا سے کچھ بڑا ایک پرندہ۔

الزَّرَقَاءُ: دودھ اور زیتون کے تیل میں ترکیب کیا ہوا شہید۔ ایک جانور جو بلی کے مشابہ ہو تا ہے عمر اس کی ناکھیں چھوٹی اور جسم لمبا ہوتا ہے۔

الزَّرَاقَةُ: وَالْعَامَّةُ تُسَمِّي بِهَا الزَّرَاقَةَ: پیکاری (عوام اسے زاروقہ کہتے ہیں)۔

الزَّرَاقَةُ: خارجوں کا ایک گروہ جو نافع بن الازرق کے ساتھی تھے اور مخالفین کو قتل کرتا اور ان کی عورتوں کو قید کرنا جائز سمجھتے تھے۔ واحد

(الأزرقی)

المِزْرَاقُ: چھوٹا نیزہ _____ مِنَ الْأَبَاعِمِ: پیچھے کی طرف بوجھ ڈالنے والا اونٹ۔ جِ مِزْرَاقٍ:

زَرَقَفَ وَإِزْرَقَفَ: جلدی کرنا۔

زَرَقَلُ زَرَقَلَةً: لِحَى بِحَقِيْقٍ: حق رہنا۔ الشَّهْوُ: بالوں کو جھاڑنا۔

الزَّرَقِمُ: بست نیلگوں آنکھ والا (قد کرو مَوْنَتِ) جِ زَرَّاقِمٍ:

الزَّرَاقِمُ: بست سے سانپ۔

زَرَقًا (س) أَزْرَقًا: بد خلق ہونا۔

زَرَمَهُ (ض) زَرَمًا وَزَرَمَهُ وَأَزْرَمَهُ: کانا۔ کہتے ہیں "زَرَمَتْ بِهَ أُمُّهُ" اس کی ماں نے اس کو جتا۔

وَزَرَمَهُ الدَّهْرُ: زمانہ نے اس سے خیر منقطع کر دیا۔ زَرَمَ (س) أَزْرَمًا: الشَّيْءُ: منقطع ہونا۔

إِزْرَمَهُ: لگانا۔

إِزْرَامٌ: غضبناک ہونا۔ سَکْرَانًا:

الزَّرَمُ: ذمیل تھوڑے جتنے والا۔ بَخِيلٌ: تنگ حال۔

الأَزْرَمُ: منقطع۔ بلی۔

الزَّرِمُ: تھوڑے جتنے والا۔ ذمیل۔

الزَّرْمُوجُ: جوتا۔

الزَّرْمَانِقَةُ: بے آستین کا ادنیٰ جبہ۔

الزَّرَنْبُ: ایک خوشبودار پودہ۔ جس کو زخمل العَجْرَاجُ بھی کہتے ہیں۔ زعفران۔ تیل گائے۔

الزَّرَنْبِيخُ: ہڑتال۔

زَرَقَ زَرَقَةً: الأَرْضُ: چھوٹی نہر سے پانی دینا۔ کتوئیں پر زرنوق لگانا۔ دیکھئے "زرنوق"

فَلَأْنَا اللَّيْسَانَ: کسی کو لباس پہنانا۔

تَزْرَقُ: بالیسیاب۔ کپڑے پہنانا _____ الزَّحْلُ: چھوٹی نہر سے اجرت پر آب کشی کرنا۔

الزَّرْنُوقُ: چھوٹی نہر۔ چکی کا دستہ۔

الزَّرْنُوقَانُ: کتوئیں کے من پر کے دو کھجے جس میں چرئی لگی ہوئی ہوتی ہے۔

الزَّرَنْقَةُ: مہ۔ زیادتی۔ حسن کمال۔

الزَّرَنْبِقُ: ہڑتال۔

الزَّرَاهِمَةُ: آزاد لونڈی۔ نوجوان موٹی عورت۔ زَرَى (ض) زَرِيًا وَزَرِيًا وَزَرَانَةً وَمَزْرِيَةً

وَمَزْرَاقًا وَأَزْرَى وَتَزْرَى: عَلَيْهِ عَمَلُهُ: کسی کام

پر عتاب کرنا۔ عیب لگانا۔ أَرَزَى بِالْأَمْرِ: سستی

کرنا۔ أَرَزَى بِهَوِّ أَرَزَاهُ: عیب لگانا۔ حق گھٹانا۔

زَارًا مُزَارَفًا: ایک دوسرے کو عتاب کرنا۔

إِرْدَزَى وَاسْتَزَرَى: ہ۔ حقیر سمجھنا۔

الزَّرِي: ناکارہ۔ ذمیل۔

المِزْرَاءُ: لوگوں کو عیب لگانے والا۔

رَظَانٌ (ن) رَظَانٌ الذَّنَابُ: کبھی کا بھینچنا۔

الرَّظَ: جاٹ (ہندوستان کی ایک قوم) واحد رَظِيٌّ:

رَعب (ف) رَعبًا: الإنَاءُ: برتن کو بھرنا

القِرْبَةُ: بھگ بھری ہوئی اٹھانا۔

القِرْبَةُ: پانی گرانا _____ السَّبِيلُ: سیلاب کا وادی کو بھر دینا _____ الوادِي: وادی کا بھر جانا

الشَّيْءُ: کانا _____ لَهُ مِنَ الْمَالِ:

رَعبًا وَرَعبَةً وَرَعبَةً: مال کا کچھ حصہ دینا

العُرَاةُ: جماع کرنا۔

رَعب (ف) رَعبًا: العُرَابُ: کائیں کائیں کرنا۔

تَرَعبٌ: غضبناک ہونا۔ شادماں ہونا۔

فِي أَكْبَلِهِ وَشَرِيْهِ: بست کھانا پینا۔ القَوْمُ الصَّالُّ: قوم کمال میں سے اپنا اپنا حصہ لینا۔

إِزْرَعَبَ: الشَّيْءُ: کات لینا۔

الزَّرْعِيَّةُ وَالزَّرْعِيَّةُ وَالزَّرْعِبُ: مال کا ایک حصہ۔

الأزْعَبُ: پستہ قد کینہ۔ مونا۔ مَوْنَتُ زَرْعَبَاءُ جِ زَرْعَبٌ:

سَبَلٌ "رَاعِبٌ وَرَعُوبٌ" وادی کو بھرنے والا سیلاب۔

الزَّرْعِبُ: اچھا ہیر۔

زَعْبٌ: التحلُّلُ: شد کی کھپوں کی بھینچنا۔

الزَّرْعُوبُ: پستہ قد کینہ۔

الزَّرْعِيخُ وَالزَّرْعِيخُ: سفید بادل۔ پتلا بادل۔ ہر چیز میں کا خوبصورت۔ زیتون۔

الزَّرْعَبْرِيُّ: ایک قسم کا تیر۔

رَعبٌ: القَوْمُ: ہریشان و متفرق کرنا۔

الشَّيْءُ: جدا جدا کرنا۔

تَرَعبٌ: الشَّيْءُ مِنْ يَدِي: بکھر جانا اور متفرق

زَعْرَدٌ وَزَعْرَدَةٌ: البَعِيْرُ: اونٹ کا اپنے حلق میں آواز کو لواتے ہوئے بلبلانا۔
 زَعْرَغُ الْكَلَامِ: ریک بگنگو کرنا۔ الشَّيْءُ: چھپانا۔ بِالزَّجْلِ: تسمیر کرنا۔ ٹھٹھا کرنا۔
 الزُّعْفُغُ: سبک و چست آدمی۔
 حسب و نسب میں مطعون۔
 الزُّعْفُغُ: پستہ قد حقیر ایک پرندہ۔
 الزُّعْرُغِيَّةُ: عجم میں سے بعض لوگوں کی زبان۔
 الزُّعْرُغِيَّةُ: ایک قسم کا کھانا جو کھی اور آئے سے تیار کیا جاتا ہے۔
 زَعْفُ (ف) زَعْفًا: المَاءُ: پانی بہت ہوتا۔
 فِي حَدِيثِهِ: بہت بولنا اور جھوٹ بولنا۔
 کہا جاتا ہے "زَعْفٌ كَلَامًا كَثِيْرًا" و "زَعْفٌ لَنَا مَالًا كَثِيْرًا" اس نے بہت کچھ اس کی اور اس نے ہم کو بہت مال دیا۔
 بِالزُّومِخِ: بیڑہ مارنا۔
 اِذْ زَعَفَ الشَّقِيُّ: سارالے لینا۔
 الزُّعْفُ: مہ۔ کشادہ اور لمبی زہ۔ بادل جو برس چکا ہو اور ابھی گھرا ہوا ہو۔
 دِنْعٌ (زَعْفِيْفٌ) كَشَادَةٌ: مضبوط، اچھے حلقوں والی زہ اور کہا جاتا ہے "ذُرُوْعٌ وَزَعْفٌ وَزَعْفٌ وَآزَعَاْفٌ وَزَعُوْفٌ"
 الزُّعْفُ: جھپٹیاں۔ درخت کی کمزور شاخیں۔
 الزُّعَاْفُ: بہت بولنے والا۔
 الزُّعْفَةُ وَ الزُّعْفَةُ: کشادہ یا مضبوط زہ۔
 المِزْعَافُ: حریص۔ بہت خواہش مند۔
 زَعْفَلٌ زَعْفَلَةٌ: جھوٹ بولنا۔
 زَعْلٌ (ف) زَعْلًا: المَاءُ: پانی بار بار گرانا۔
 الشَّرَابُ: کھلی کرنا۔ الصَّبِيْءُ اُمَّةٌ: بچہ کا دودھ پینا۔
 اَزْعَلُ المَاءُ: گرانا۔ اَلْمُؤْمُوْ لَدَهَا: بچہ کو دودھ پلانا۔ الظَّائِرُ فَرَحُهُ: پرندہ کا بچہ کو چرگانا۔ الشَّرَابُ: کھلی کرنا۔
 الزَّعْلُ: دھوکا۔
 الزُّعْلِيُّ: دھوکا دینے والا۔
 الزُّعْلَةُ: کھلی کا پانی جو مٹ سے پھینکا جائے۔ ایک مرتبہ پانی گرانے کی مقدار۔
 الزُّعْلُوْلُ: بچہ۔ ہلکا پھلکا جلد باز مرد۔ ج

الزَّعْبُ: پردوں یا بالوں کے روئیں۔ واحد (زَعْبَةٌ)
 الزُّعْبِيُّ وَ الزُّعْبَانَةُ: چھوٹے روئیں۔ کہا جاتا ہے "مَا اَصْبَتْ مِنْهُ زَعْبَانَةٌ" میں نے اس سے روئیں کے برابر بھی کچھ حاصل نہیں کیا۔
 الازْعَبُ: روئیں دار۔ مؤنث زَعْبَاءُ۔ ج زُعْبٌ۔ تھا چوڑہ۔
 الزُّعْبَةُ: گھری۔
 الزُّعْبِيُّ: پستہ قد بچل۔
 زَعْبُوْرٌ: الفُوْبُ: روئیں دار ہوتا۔
 الزُّعْبُوْرُ وَ الزُّعْبُوْرَةُ: رواں۔ کہا جاتا ہے "اَخَذَ الشَّقِيُّ يَزْعِبُوْرَهُ" اس نے ساری چیز لے لی۔
 الزُّعْبُوْرَةُ: عِنْدَ العَامَّةِ: رواں۔ کلمہ محرف ہے صحیح لفظ الزَّعْبُ ہے۔
 الزُّعْبِيْدُ: کھن۔
 زَعْدٌ (ف) زَعْدًا: السِّقَاءُ: منگ چھوڑنا۔
 فَلَآئِنَا: گلا دینا۔ البَعِيْرُ: اونٹ کا تخت بلبلانا۔ النَّهْرُ: دریا کا چڑھنا۔ موج مارنا۔
 ہاں کلام: آکسانا۔ بھڑکانا۔
 اَزْعَدَتِ: المَرْأَةُ وَ لَدَهَا: عورت کا بچہ کو دودھ پلانا۔
 الزُّعْبِيْدُ وَ الزُّعْبِيْدَةُ: کھن جو منگ کو دبانے سے اس کے منہ سے نکلے۔
 نَهْرٌ (زَعْدًا) بہت پانی والا چڑھا ہوا دریا۔
 المِزْعَبِيْدُ: غھبناک۔
 زَعْدَبٌ: غھبناک ہونا۔ سوال کرنے میں اصرار کرنا۔
 الزُّعْدَبُ: سخت آواز۔ بہت جھاگ۔ کھلی ہوئی چرلی۔
 الزُّعَادِبُ: بہت جھاگ۔ کہہ کر منظر مرد۔
 زَعْرُوْرٌ (ف) زَعْرُوْرًا: الشَّقِيُّ: جھین لینا۔ زبردستی لینا۔ الشَّقِيُّ: بگھرت ہونا۔ البَعِيْرُ: چڑھنا۔ موج مارنا۔
 الزُّعْرُوْرُ: مین کھل شقی۔ زیادتی۔ افراط۔
 الزُّعْرَانُ: کٹیوا۔
 زَعْرَبٌ: ہنسا۔
 الزُّعْرَبُ: بہت پانی۔ بٹر زَعْرَبٌ وَ زَعْرَبَةٌ: بہت پانی والا کتوں۔

زَاعَمَهُ: بھڑکنا۔
 تَوَزَعَمَهُ: جھوٹی باتیں بیان کرنا۔
 تَوَزَعَمَ القَوْمُ عَلَى الامرِ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ باہم غیر موافق باتیں کرنا۔
 الزُّعْمُ مِنَ الشُّبُوْهِ: بہت چرلی والا جس سے بھوٹے ہوئے چرلی آگ پر لپکے۔
 الزُّعْمَةُ: زَعْمٌ کا اسم مرہ۔ ج زُعْمَاتٌ کہا جاتا ہے "هَذَا وَاوَلَا زُعْمَتِكَ اَوْ زُعْمَاتِكَ" یعنی یہی صحیح ہے اور میں تمہارا گمان نہیں خیال کرتا ہوں۔
 الزُّعْمِيُّ: جھوٹا۔ سچا۔ ضد۔
 الزُّعَامَةُ: مہ۔ شرف۔ سرداری۔ تھیاری۔ زہ۔
 مہ مال یا انگریز مال۔ گائے۔
 الزُّعْمُوْمُ: گنگو میں عاجز۔ چرلی دار عورت۔ کم چرلی والی عورت (مُتَدَمِّرَةٌ)
 الزُّعْمُوْمُ: گنگو میں عاجز۔
 الزُّعِيْمُ: ضامن۔ کفیل۔ سردار۔ رکنیں۔ ج زُعْمَاءُ۔
 المِزْعَمُ: مہ۔ لالچ کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا اَمْرٌ مِزْعَمٌ" یعنی یہ امر غیر موثوق ہے کوئی کچھ کتا ہے اور کوئی کچھ و "هَذَا اَمْرٌ لِيْبِهِ مِزْعَمٌ" یہ ایسا امر ہے جس میں جھگڑے ہیں۔
 المِزْعَامَةُ: سانپ۔
 زَعْفَبٌ: المَائِيْطَةُ العَرُوْسُ: مشابہ کا دلہن کو آراستہ کرنا۔
 الزُّعْفَبَةُ وَ الزُّعْفَبَةُ: پستہ قد مرد یا عورت۔ ہر چیز کا ایک حصہ۔ جسم کے اطراف مانند ہاتھ پیر کے۔ روی۔ قبیلہ کا ایک ٹکڑا جو علیحدہ ہو یا دوسرے کے ساتھ مل جائے۔ کپڑے کا ٹکڑا یا ٹھپلا پھینا ہوا حصہ۔ مہمیت۔ ج زَعْفَابِيفُ الزُّعَايِفُ: چھلی کے پر۔ ہر وہ جماعت جن کی کوئی ایک اصل نہ ہو۔
 زَعَايِفُ عُوْرُوْعًا: منصف ہونا۔ عادل ہونا۔
 زَعْبٌ (س) اِزْعَابًا وَ زَعْبٌ وَ اِزْعَابٌ الصَّبِيْءُ اَوْ الفَرَسُ: بچہ یا چوڑہ کا رواں لگانا۔ صفت (زَعْبٌ)
 اَزْعَبٌ: الكِرْمُ: انگور کی تیل میں پتے نکلنے لگنا۔

زَعَالِيلُ-

الزَّغَلِيَّةُ بدخلتي- تدمراہی۔

الزَّغَلْمَةُ وَالزَّغَلْمَةُ كمان۔ وہم۔ کینہ۔ دلی دشمنی۔

تَزَعَمَ الْجَمَلُ: اونٹ کا جھاگ کو اپنے جڑوں میں پھرانا اور اسی سے ہے "تَزَعَمَ الزَّجُلُ" یعنی اس نے غمناک ہو کر گھٹکی۔
الزُّغُومُ وَالزُّغُمُومُ: گھٹکی کرنے میں عاجز و درماندہ۔

الزُّغْمَلُ۔ کینہ۔ دلی دشمنی۔

زَعَانُ (ض) زَعَا وَالصَّبِيُّ: بچہ کاروٹا۔

زَفَّ (ض) زَفَا وَزَفُوهُ تیز دوڑنا
الرَّيْحُ: ہوا کا چلنا (ض) زَفَا وَزَفِيهَا الطَّائِرُ: پرندہ کا پر پھیلا کر اترنا۔زَفَّ (ن) زَفَا وَزَفَا: الغُرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔
الزُّوْفِيُّ: چمکا۔أَزَفَ: الغُرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔ تیز دوڑنا۔
ہ: تیز دوڑنا۔إِزْدَفَ: الْجَمَلُ: بوجھ اٹھانا۔
الغُرُوسُ: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔إِسْتَزَفَةَ السَّبِيلَ: سیلاب کا بہا لے جانا۔
ہ: السَّبِيلُ: سبک پانا۔الزَّفَ: چھوٹے چھوٹے پر۔
الزَّفَفُ: پرندہ کے زون میں کا ایک پر ایک چپکا ہوا ہوتا۔الزَّفِيَّةُ: زَفَّ كَأَسْمِ مَرَةٍ: کہا جاتا ہے "جَفْنَةُ زَفِيَّةٌ أَوْ زَفَتَيْنِ" میں اس کے پاس ایک ہاریا دو بار آیا۔
الزَّفَةُ: گروہ۔

الْأَزَفُ: تیز رفتار۔ باریک پروں والا۔

الزُّوْفِيُّ وَالزُّوْفَانُ وَالزُّوْفَانُ: سبک تیز رفتار۔
الزُّوْفِيُّ: شتر مرغ۔ مِنَ الثُّوْقِ: عمدہ

چال والی تیز رفتار اونٹنی۔ قَوْشُ زَفُوفٍ: آواز

دینے والی کمان۔

الْمِزْفَةُ: پاکی۔

زَفَّتْ (ن) زَفَّتَا: الإنَاءُ: بھرنا۔

الزَّجُلُ: غنیمت میں ڈالنا۔ مَعْرَا: دھکا دینا۔ دھکا دینا۔

کہا جاتا ہے "زَفَّتِ الْخَلْدِيَّةُ فِي أُذُنِ الْأَصْحَمِ"

اس نے میرے کان میں بات ٹھوس ٹھوس۔

زَفَّتِ: السَّفِيْئَةُ: کشتی پر زفت ملنا۔

الزَّفْتُ: تار کول جیسی ایک چیز جس کو کشتی وغیرہ پر ملا کرتے تھے۔

زَفَّةٌ (ن) زَفَّةٌ: الإنَاءُ: برتن بھرنا۔

فَرَسُهُ شَعْبِيًّا: گھوڑے کو بہت جو کھلانا۔

إِزْدَفْتُ: الصَّالُ: سارا لے لینا۔

زَفَوْتُ (ض) زَفُوًا وَزَفِيًّا: النَّارُ: آگ سے

بڑکنے میں آواز لگانا۔ الْأَرْضُ: نباتات

آگاہ۔ زَفَرُ الزَّجُلِ: لمبی لمبی سانس لینا۔ الْجِمَارُ:

گدھے کا رنگنا شروع کرنا۔ وَزَفَرُ الشَّيْءِ زَفُوًا:

اٹھانا۔ الْمَاءُ: پانی کھینچنا۔

إِزْدَفَرُ: الشَّيْءُ: اٹھانا۔

الزُّفَرُ: بھاری بوجھ۔ مٹک۔ مسافر کا سامان۔

جماعت یا دست فوج۔ جِ أَزْفَارٍ:

الزُّفَرُ: درخت کے نیچے لگانے کی تھوپی۔

الزُّفَرُ: شیر۔ بہادر۔ سندر۔ بہت پانی والا دریا۔

تختی۔ سردار۔ مٹک کے اٹھانے کیلئے مضبوط آدمی۔

بہت عظیم۔ دست فوج۔

الزُّفَيْرُ: مہم۔ مصیبت۔ گدھے کی آواز کی ابتداء

اور اتمنا کو کٹھنہتی کہتے ہیں۔

الزُّفْرَةُ وَالزُّفْرَةُ: لمبی سانس۔ گرم سانس۔ زَفْرَةُ:

الذَّابِيَّةُ زَفْرُفُهَا: جانور کا پھولا ہوا پھلو۔ الزُّفْرَةُ:

زَفَرُ الزَّجُلِ أَوْ الْجِمَارِ كَأَسْمِ جِ زَفَوَاتٍ: بھی

ضرورت شہری کی بنا پر فاکو ساکن کر کے زَفَوَاتٍ

کہتے ہیں۔ قَوْشُ (أَزْفَرُ) بڑے پیلوؤں والا گھوڑا۔

جِ زَفْرٍ:

الزَّافِرَةُ: جماعت۔ دست فوج۔ مصیبت۔ تیرے پر

کے علاوہ یا بیگان کی جانب دو ٹمٹ سے کم۔ کندھا

اور اس کے گرد گرد۔ کمان۔ بڑا سردار۔ زَافِرَةُ:

الزَّجُلُ: مروے کا قارب و انصار۔ زَافِرَةُ الْبِنَاءُ:

عمارت کا ٹھم۔ جِ زَوَافِرِ الزَّوْافِرِ: پھیلیاں۔ کہا جاتا

ہے "فَرَسٌ شِدْبِيَّةٌ الزَّوْافِرِ" مضبوط پسیوں والا

گھوڑا۔ پانی لانے والی لوٹیاں۔ انھور کی تیل

اٹھانے کی ٹٹی۔ زَوَافِرُ الصَّخِيدِ: بزرگی کے

اسباب۔

الْمُزْفَرُ وَالْمُزْدَفَرُ: لمبی سانس۔ سانس لینے کی

جگہ۔

الْمُزْفَرُ: مِنَ الدَّوَابِّ: مضبوط جوڑوں والا جانور۔

زَفْرَفُ: الزَّجُلُ: تیز چلنا۔ عمدہ چال چلنا

الطَّائِرُ: پر پھیلا کر اترنا۔ الرَّيْحُ

الْحَبِيْبِيْشُ: ہوا کا کھاس کو حرکت دینا اور اس

سے سانس سانس کی آواز لگانا۔

الْمَرْكَبُ: سواری کے چلنے سے آواز سنائی دینا۔

الزُّفُوفُ وَالزُّفُوفُ وَالزُّفُوفَةُ: متواتر تیز

چلنے والی ہوا۔ الزُّفُوفُ: شتر مرغ ہلکا۔

زَفَقَلُ زَفَقَلَةٌ: تیز دوڑنا۔

الْأَزْفَلُ: غصہ۔ تیزی۔

الْأَزْفَلَةُ: جماعت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ وَآ

أَزْفَلَةٌ وَيَأْزِفْلَيْتِهِمْ" وہ سب مع اپنی جماعت کے

آئے۔

الْأَزْفَلَةُ: سبکی حمل۔

زَفَرْنَا (ض) زَفْنَا: ناچنا۔ سخت دھکا دینا اور لات

مارنا۔ کہا جاتا ہے "دَنَزْتُ مِنْهُ فَرَقْتَنِي" میں اس

سے قریب ہوا اس نے مجھے دھکا دیا۔

الزُّفْنُ: چھت کے اوپر کا سامان۔ النَّاقَةُ

(الزَّافِقَةُ وَالزُّفُونُ) لنگڑی اونٹنی۔

الزُّفَانُ: ٹاپنے والا۔

الْإزْفَلَةُ: حرکت۔ زَجْلُ الْإزْفَلَةُ: متحرک مرو۔

الزُّفُونُ: ایک درخت جس کے پھول سفید

ہوتے ہیں اور اس میں چھل نہیں آتا۔ نَاقَةُ

زَفْرُونُ: تیز رفتار اونٹنی۔

زَفِي يَزْفِي زَفِيًا وَزَفِيَانًا: زَفَتِ الْقَوْشُ:

آواز دینا۔ الرَّيْحُ السَّحَابُ وَالرَّيْبُ:

ہوا کا بادل یا مٹی کو اڑانا۔ الزَّجُلُ: بِنَفْسِهِ

: جان دینا۔

أَزْفِي: الشَّيْءُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ لے

جانا اور اسی سے ہے "أَزْفَيْتِ الْغُرُوسُ" جبکہ

میکہ سے دلہن کو سسرال لے جائیں۔

الزَّافِي: سبک تیز رفتار۔

الزُّفَيَانُ: مہم۔ ہلکا پن۔ ہلکا۔ نَاقَةُ زَفْيَانُ: تیز

رفتار اونٹنی۔

الْمُزْفِيُّ وَالْمُزْفِيَّةُ وَالْمُزْفِيُّ: ڈرا ہوا۔

زَفِي (ن) زَفَا: الطَّائِرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔

فَرْخَه: چوزہ کو چوگا دینا۔
 الْكَيْشُ: مینڈھے کی کھال اٹارنا الْجِلْدُ: بال
 کاٹنا۔
 الزُّق: مٹک۔ زُقُّ الْحَدَّادِ: بوبار کی بھیجی۔ ج
 اَزْقَائِي وَزَقَائِي وَوَقَائِي وَأَزْقِي
 الزُّق: شراب۔ ج زَقْفَة۔
 الزُّقْفَة: چوزہ کو چوگا دینے والی فانتائیس۔
 چھوٹے بچوں کو تیار کرنے والے۔
 الزُّقَائِي: گلی۔ ٹنگ راستہ (مذکر مؤنث) ج
 اَزْقَهُ وَزَقَانُ الزُّقَانُ وَبَحْرُ الزُّقَائِي: جبرالطری
 آبنائے۔
 الزُّقْلَةُ وَزُقْفُ: پن ڈبی نامی ایک پرندہ۔
 الزُّقَائِي: مٹک بنانے والا۔
 زَقَب (ن) زَقَبَا: الْجَزْدُ فِي الْحَجْرِ: چوہے
 کا سوراخ میں داخل ہونا۔ وَزَقَبَهُ فِي الْحَجْرِ:
 داخل کرنا (لازم و متحرک)
 زَقَبُ الْمَكَا: آواز کرنا (مکاء ایک پرندہ ہے)
 اِنزَقَبُ الْجَزْدُ فِي الْحَجْرِ: چوہے کا
 سوراخ میں داخل ہونا۔
 الزَقَب: ٹنگ راستہ۔ نزدیکی۔ کہا جاتا ہے
 "وَحَيْثُ عِن زَقَب" میں نے اس کو نزدیک سے تیر
 مارا۔
 زَقَعَ (ف) زَقَعًا وَزَقَعًا: الْقَزْدُ: بندر کا
 آواز کرنا۔
 الزُّقْرُ: شکر۔ الصَّقْرُ میں ایک لغت ہے۔
 الزُّقْرُ: دوزخ (السَّقْرُ میں ایک لغت ہے)۔
 زَقْفُ زَقْفَةٌ وَزَقْفًا: الطَّائِرُ: پرندہ کا بیٹ
 کرنا۔ پھیمانا۔ فَرْخَةٌ: چوزہ کو چوگا دینا
 الصَّبِيُّ: بچہ کو کہانا۔ الزُّجْلُ:
 آہستہ آہستہ ہلکا ہونا۔
 الزُّقْرَائِي: آہستہ چلنے والا۔ ایک قسم کی
 چوہی نہیں۔
 زَقَعَ (ف) زَقَعًا وَزَقَعًا: الدَّبْكُ: مرغ کا
 گلڑوں کوں کرنا۔ الْجَمَّازُ: گدھے کا زور
 سے گوز کرنا۔
 زَقَف (ن) زَقَفًا وَتَزَقَفَ وَارْدَقَفَ الشَّيْ:
 چھین لیتا جلدی سے آپک لیتا۔ اور اسی سے ہے
 "تَزَقَفَ الْكُفْرَةَ بِالضُّلْبَانِ" وہ گیند کو بولے

سے جلدی سے لے گیا۔ تَزَقَفَ وَارْدَقَفَ
 اللَّفْقَمَةُ: لقمہ لگانا۔
 الزُّقْفَة: ہر وہ چیز جو نکل لی جائے۔ ہر وہ چیز جو ہاتھ
 میں لی جائے۔
 زَوْقُلُ: العِمَامَةُ: سر کے دونوں جانب کناروں
 کو کہانا۔
 زَوَاقِلُ: العِمَامَةُ: عمامہ کے نیچے سے نکلے
 ہوئے بال۔
 الزُّقْلُ وَزَوَاقِلُ: چور۔ لیرے۔
 الزُّقْلَةُ: ٹنگ گلی۔
 زَقْفَمَةُ (ن) زَقْفَمًا وَارْدَقْفَمَةُ: لگانا۔
 اَزَقْفَمَةُ: الشَّيْ: لگانا۔
 زَقْفَمَةُ: تھوہر کھلانا۔
 تَزَقَمَ: لقمہ کرنا۔ لگانا۔ تھوہر کھلانا۔ اللَّبْنُ: دودھ
 بہت پینا۔
 الزُّقُومُ: جہنم کے ایک درخت کا نام۔ تھوہر
 مسلک خوراک۔ ایک جنگلی گھاس جس کا پھول
 چیتیلی کی مانند ہوتا ہے۔
 الزُّقْمَةُ: زقم کا اسم مرہ۔ طاعون۔
 زَقْنُ (ن) ض) زَقْنًا: الْجَمَلُ: بوجھ اٹھانا۔
 اَزَقْنَهُ: اٹھانے میں مدد دینا۔
 زَقَا يَزُقُّ زَقْوًا وَزَقَاءً وَزَقِيًا وَزَقِيًا وَزَقْوًا
 وَزَقِيًا (ض) زَقِيًا: الطَّائِرُ: پرندہ کا پھیمانا۔ صفت
 مذکر اَزَقِيًا ج زَوَاقِي: صفت مؤنث (زاقیہ) ج
 زَوَاقِي: الصَّبِيُّ: بچہ کا ہست رونا۔
 اَزَقَاةُ: رلانا۔
 الزُّقِيَةُ: روپے پھیسوں کا چیز۔
 الزُّقِيَةُ: بچ۔
 زَكَّ (ن) زَكَا وَزَكَا وَزَكِيًا وَزَكِيًا الشَّيْخُ:
 دوڑنے یا چلنے میں کمزوری کی وجہ سے قریب
 قریب قدم رکھنا۔ (زَكَا) الْعَلَامُ: دوڑنا
 الْقِرْبَةُ: مٹک بھرنا۔ بِسَلْبِهِ: بیٹ
 کرنا۔ زَكَاةُ الْمَاءِ: آسورہ کرنا۔ عَلِي
 فَلَانٍ: غصب ناک ہونا۔
 زَكَّةُ الزُّجْلِ: بوڑھا ہونا۔ بیماری کی وجہ سے
 کمزور ہونا۔
 اَزَكَّ: عَلِي الْأَمْرُ: اصرار کرنا۔ بِرَأْيِهِ:
 خود رائے ہونا۔

تَزَكَّكَ: سازو سامان لینا یا ہتھیار اٹھانا۔
 اِزْدَكَ الزُّرْغُ: سیراب ہونا۔
 الزُّكُ: فاختہ کا چوزہ۔
 الزُّكَّةُ: ہتھیار۔
 الزُّكَّةُ: غم و غصہ۔
 زَكَاةُ (ف) زَكَاةً: مارنا۔ زَكَاةُ
 الدَّرَاهِمِ: نقد دینا یا جلدی نقد دینا۔ زَكَاةُ
 حَقِّهِ: پورا کرنا۔ إِلَيْهِ: پناہ لینا۔
 اِزْدَكَ حَقَّهُ مُنْذَرًا: جن وصول کرنا۔
 رَجُلٌ (زَكَاةً وَزَكَاةً وَزَكَاةً) التَّقْدِ: جلدی نقد
 دینے والا۔
 الْمَرْكَاةُ: جانے پناہ۔
 زَكَب (ن) زَكَبًا وَزَكَبَاتًا: الإِنَاءُ: برتن کو
 بھرنا۔ الْمَرْزَاةُ: عورت کا ایک ہی مروڑ میں
 بچہ کو جنانا۔ الْمَرْزَاةُ: جماع کرنا۔
 اِنزَكَبُ: النَّحْوُ: سمندر کے پانی کا ہست زمین
 میں یا گڑھے میں داخل ہونا۔
 الزُّكْبَةُ: لڑکا۔ لطف۔
 زَكَبْتُ (ن) زَكَبْتُ وَأَزَكْتُ وَرَكَبْتُ: الإِنَاءُ:
 برتن کو بھرنا۔
 اَزَكَبْتُ: الْمَرْزَاةُ بِغَلَامٍ: لڑکے کو جنانا۔
 الْمَرْكَبَاتُ: اماندوں سے بھری ہوئی ٹڈی۔ بھرا
 ہو اعلیٰ۔
 زَكَبْتُ (ن) زَكَبْتُ وَأَزَكْتُ: الإِنَاءُ: برتن کو بھرنا۔
 زَكَبْتُ وَتَزَكَبْتُ: الإِنَاءُ: برتن کا بھر جانا۔
 الزُّكْبَةُ: شراب وغیرہ کیلئے چڑھے کا برتن۔ ج
 زَكَبُ۔
 زَكَبْتُ: الشَّيْخُ: قریب قریب قدم رکھ کر
 چلنا۔
 تَزَكَبْتُ: ہتھیار اٹھانا۔
 زَكَمَةُ (ن) زَكَمًا وَزَكَمَاتًا: الْجَمَلُ: جملائے زکام کرنا
 الْقِرْبَةُ: مٹک بھرنا۔ زَكَمْتُ بِهِ أُمَّهُ:
 جنانا۔
 زَكِمَ: زکام زدہ ہونا۔ صفت (مترکوم)
 الزُّكْمَةُ: زکام۔ اولاد۔ کہا جاتا ہے "إِفْلَانِي
 زَكْمَةُ سُوءٍ" فلال کی اولاد غیر صالح ہے۔
 الزُّكْمَةُ: اُجْدُ: آخری بچہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 زَكْمَةُ وَلِدَائِي" وہ اپنے باپ کا آخری بچہ ہے۔

وَمَزَلَّةٌ وَزَلِيلٌ وَزَلِيلَةٌ بِسْمَلٍ كَرَرْنَا
عَنِ الْحَقِّ أَوْ الصَّوَابِ: پھر جانا _____ غمخوار
گزر جانا _____ (زَلَّ زَلِيلًا وَ زَلُولًا) جلدی
گزرنا۔
زَلَّ زَلُولًا: اللذہم: کم وزن ہونا۔ صفت
(زَالًا) ج زَوَالٌ: کہا جاتا ہے ”ذَرَاهِمُ زَوَالٌ“ کم
وزن والے درہم۔
زَلَّ (س) زَلِيلًا: ہلکے سرین والا ہونا۔ صفت
(أَزَلَّ) مَوْثٌ زَلَاءٌ: ج زَلٌّ۔
أَزَلَّ: پھسلنا۔ لغزش کرنا۔ کہا جاتا ہے ”أَزَلَّ إِلَيْهِ
بِعَمَّةٍ“ اس نے اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا اور
نعت دی۔ و ”أَزَلَّ إِلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا“ اس نے
اس کو اپنے حق میں سے کچھ دیا۔ ”أَزَلَّ إِلَى
الْقَوْمِ“ اس نے اس کو قوم کے سامنے پیش کیا۔
اسْتَزَلَّ: پھسلنا۔ لغزش کرنا۔
الزَّلُّ: پھسلنے کی جگہ (مذکور مؤنث) کہا جاتا ہے
”مَكَانَ الزَّلِّ وَأَرْضُ زَلٍّ“
الزَّلُّ: سہم۔ گناہ کا ارتکاب۔ کہا جاتا ہے
”اسْتَفْهَمُوا اللَّهَ مِنْ زَلَّتِي“ میں اللہ سے اپنے
ارتکاب گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ پھسلنے کی
جگہ (مذکور مؤنث) کہا جاتا ہے ”فِي هَيْزَابِهِ زَلٌّ“
اس کے ترازو میں نقصان ہے۔
الزَّلَّةُ: زَلٌّ کا اسم مرہ۔ ایک مرتبہ گرتا۔ گناہ۔
وہم۔ دلہن۔ خوراک جو دوست یا رشتہ دار کے
دمخیز خان سے اٹھایا جائے۔ ج زَلَّاتٌ۔
الزَّلَّةُ: پھیلنے پھروا حد زَلٌّ۔
الزَّلَّةُ: احسان۔ دہہ۔
مَاءٌ (زَالًا) وَ زَلُولٌ وَ زَلِيلٌ وَ زَلِيلٌ: صاف مینھا
خوشگوار پانی۔ الزَّوَالُ: بہت پھسلنے والا الزَّلِيلُ:
قالودہ۔ ہلکے حال۔
الْأَزَلُّ: تیز رفتار۔ ہلکے سرینوں والا۔ مؤنث
زَلَاءٌ قَوْضٌ زَلَاءٌ: کمان جس سے تیز جلد نکل
جائے۔
المَزَلَّةُ وَ المَزَلَّةُ: پھسلنے کی جگہ۔ ج مَزَالٌ۔
المَزَلِيلُ: نا۔ بہت بھلائی کرنے والا۔
زَلِبٌ (س) زَلْبًا: یہ لازم رہنا۔ چپٹا رہنا۔ جدا نہ
ہونا۔
الزَّلْبَةُ: لقمہ۔ تیز۔

زَكَنَ (س) زَكَنًا: اُتْرَجَانًا۔ سمجھنا۔ گمان
کرنا۔ کہا جاتا ہے ”زَكَنْتُ أَنَّهُ زَجَلٌ مُسْوِيٌّ“ میں
نے جانا کہ وہ بڑا آدمی ہے _____ مِنْهُ عَدَاوَةٌ
کسی کی دشمنی کا علم ہونا _____ زَكُونًا إِلَيْهِ: پناہ
لیتا۔ مل۔ جل جانا۔
زَكَنَ: گمان کرنا _____ عَلَيْهِ: مشتبہ کرنا۔
زَاكِنَةٌ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ کہا جاتا
ہے ”هَذَا الْجَيْشُ يُرَاكِنُ الْأَلْفِينَ“ یہ لاکھرو
ہزار کے قریب ہے _____ ہ: قریب وہم نشین
ہونا۔
أَزَكَنَةُ: الْأَفْرُ: جَتَانًا۔ سمجھنا _____ الشَّيْءُ:
صحیح گمان کرنا۔
الزَّكَانَةُ وَ الزَّكَانِيَّةُ: صحیح گمان۔
زَجَلٌ (زَكَنٌ): سمجھ دار مرد۔
زَجَلٌ (زَكَنٌ): اچھی یادداشت والا مرد۔
زَكَانِيٌّ كُوزُ زَكَانَةٍ وَ كُوزٌ أَوْ كِي (س) زَكَنِيٌّ:
الزُّرْغُ: بڑھنا _____ الزُّجَلُ: نیک و صالح
ہونا۔ خوش عیش ہونا۔ زکی ہونا _____ الْأَرْضُ:
عمدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا لَا يُزَكُّوكَ“ یہ
تمہارے لائق نہیں۔
زَكَنِيٌّ: بڑھنا۔ زائد ہونا۔ پیاسا ہونا۔
هُ اللَّهُ: نشوونما کرنا۔ پاک کرنا۔ صالح بنانا۔ زكوة
لیتا۔ زَكَنِيٌّ لَهُ: زكوة ادا کرنا _____ نَفْسَهُ: خود
ستائی کرنا۔
أَزَكِيٌّ: الزُّرْغُ: بڑھنا _____ ه: اللَّهُ: نشوونما
کرنا۔
تَزَكَّى: صدقہ ادا کرنا۔ زکی ہونا _____
الشَّيْءُ: بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔
الزَّكَانَةُ: جفت عدد۔ کہا جاتا ہے ”أَخَشْتُ هَذَا مِمَّ
زَكَانِيٍّ“ یہ طاق ہے یا جفت۔
الزَّكَانَةُ: چیز کا عمدہ حصہ۔ زكوة۔ صدقہ۔
پاکیزگی۔ ج زَكَوَاتُ وَ زَكَوَاتُ:
التَّزَكِّيَّةُ: زَكَنِيٌّ كَامِدَرٍ۔
الزَّكَايُ: نا۔ عمدہ نشوونما پانے والا۔ ج زَكَانَةُ۔
الزَّكَنِيٌّ: اچھی نشوونما پانے والا۔ ج أَرْكَبِيَاءُ
مؤنث زَكِيَّةٌ: کہا جاتا ہے ”أَرْضٌ زَكِيَّةٌ“ عمدہ
زرخیز زمین۔
زَلَّ (ض) زَلًّا وَ زَلَّلًا وَ زَلُولًا وَ زَلِيلًا

الزَّلْفَةُ: کچھ (اسلحہ کی تحریف ہے)

الزَّلْفُخ: ہلکا ہلکا مرد۔

الزَّلْفُخَةُ: ہلکا چٹائی۔ لکن۔

زَلْفٌ (س) زَلْفًا: مونا ہونا۔

زَلْفٌ (ض) زَلْفَانًا وَزَلْفَانًا: الزَّجَلُ: چلنے میں آگے ہونا۔ رِجْلُهُ: پھسلنا۔

زَلْفٌ (ض ن) زَلْفًا: فَلَانًا بِالْوَضْعِ: بھونکنا۔ زَانِسَةٌ: زخمی کرنا۔

زَلْفَةٌ: چکنا چور کرنا۔

أَزْلَفَ: التَّيَابُ: دروازہ کو مزلاج سے بند کر دینا (دیکھئے مزلاج)

تَزْلَفٌ: پھسلنا۔

مَكَانٌ زَلْفٌ وَزَلْفٌ: پھسلنے کی جگہ۔

الزَّلْفُخ: تیز رفتار۔ يَتَزَلْفُخُ: کتوں، حرس کے سین پر پھسلنا ہو۔

الزَّلْفَةُ: بچوں کے پھسلنے کی جگہ۔

زَلْفٌ وَزَلْفَةٌ: اللَّفْمَةُ: لقمہ ٹکانا۔

زَلْفٌ (س) زَلْفًا: بے قرار ہونا۔

الزَّلْوُ وَالزَّلْيُ: سلمان خانہ۔ آنے کا راستہ۔

زَلْفٌ زَلْفٌ وَزَلْفَةٌ وَزَلْفَانًا وَزَلْفَانًا: وَاللَّهَ

الْأَرْضُ: بھونچال لانا۔ هُ: ڈرانا، خوف

دلانا۔ الْإِبِلُ: اونٹ کو سختی سے ہانکنا۔

تَزَلْفُتِ: الْأَرْضُ: بھونچال ہونا۔

نَفْسُهُ: موت کے وقت جان کا گھومرو میں بولنا۔

الزَّلْوَةُ: بھونچان۔ ج زَلْفَانٌ۔

الزَّلْفَانُ: سختیاں۔ ہولناک چیزیں۔

الزَّلْفَانُ: ماہر چلی۔ فخرچی۔ غَلَامٌ زَلْفَانٌ: ہلکا

پھلکا لڑکا۔

الزَّلْفَانُ: سلمان خانہ۔

الزَّلْفَانُ: سبک ظریف۔ سبکی۔ جنگ و بدی۔

الزَّلْفُ: تیز چال۔

الزَّلْفُ: جلدی حلق سے اترنے والا لقمہ

(مولد)

زَلْفٌ (ف) زَلْفًا: الشَّيْءُ: فریب سے چھیننا۔

رِجْلُهُ: جلاتا۔ الْمَاءُ مِنَ الْجَيْشِ:

پانی ٹکانا۔

زَانِسَةٌ: سر پھاڑنا۔ تم کہتے ہو "زَلْفَتْ لَهْ"

مِنْ مَالِي زَلْفَةٌ" میں نے اپنے مال میں سے ایک

حصہ دیا۔

زَلْفَتْ (س) زَلْفًا وَزَلْفًا: تَزَلْفَتْ:

قَدَمُهُ: قدم کے ظاہر یا باطن کا پھٹنا۔ كَفَّهُ:

اوپر سے پھٹنا۔ الْجَرْخُ: خراب ہونا۔

تَزَلْفٌ رِيشُهُ: ہر کار کا جانا۔

زَلْفَتْ (ن) زَلْفًا: الشَّفْسُ: آفتاب طلوع

ہونا۔ النَّازُ: آگ کا بلند ہونا۔

أَزْلَفَهُ: لَمِيَ الشَّيْءُ: کسی چیز کا لالچ دلانا۔

إِزْدَلْفُ: الشَّيْءُ: فریب سے چھیننا۔

حَقَّةٌ: کسی کا حق کاٹ لینا۔ الشَّجْرَةُ:

درخت کاٹنا۔

الزَّلْفَةُ: خراب شدہ زخم۔

الزَّلْفُ: پھٹی ہوئی ابرویں والا۔

الزَّلْفُ: چھوٹی کوڑیوں کی ایک قسم۔

الزَّلْفُ: پھٹے ہوئے بیروں والا۔

إِزْلَفَتْ: الْمَسْحَابُ: گھرا گھرا۔

سَيْلٌ مَزْلُوفٌ: بڑا سیلاب۔

زَلْفٌ (ن) زَلْفًا: التَّجْمُ: ستارہ طلوع ہونا

النَّازُ: آگ کا بلند ہونا۔

تَزَلْفَتْ: رِجْلُهُ: پھٹنا۔ (جدید لغت تَزَلْفَتْ ہے)

إِزْلَفَتْ: الْفَرْخُ: چوڑے کے پر ٹکانا۔ الشَّعْرُ:

مونڈنے کے بعد اگانا۔

زَلْفٌ (ن) زَلْفًا وَزَلْفًا وَزَلْفًا وَتَزَلْفٌ

وَإِزْدَلْفٌ: آگے ہونا۔ قریب ہونا۔

زَلْفٌ (ن) زَلْفًا وَزَلْفًا: الشَّيْءُ: آگے کرنا۔

زَلْفٌ فِي الْكَلَامِ: زیادہ کرنا۔

أَزْلَفَهُ: نزدیک کرنا۔ الْأَشْيَاءُ: جمع کرنا

الدَّلِيلُ الْقَوْمُ: رہبر کا قوم کو آگے بڑھنے پر

برا بیگیت کرنا۔

الزَّلْفُ وَالزَّلْفُ وَالزَّلْفِيُّ: نزدیکی۔ درجہ۔

مرتبہ۔

الزَّلْفُ: باغ۔

الزَّلْفَةُ: نزدیکی۔ درجہ۔ مرتبہ۔ رات کا ایک

حصہ۔ بڑا پیالہ۔ ج زَلْفٌ وَزَلْفَاتٌ وَزَلْفَاتٌ اور

يقول بعض الزَّلْفُ: بمسئ رات دن چلنے کے

اوقات۔

الزَّلْفَةُ: بھرا ہوا حوض۔ چھٹی۔ کپڑے دھونے کا

طشت۔ بڑا پیالہ۔ چکنا چقر۔ سخت یا جھاڑوئی ہوئی

زمین۔ باغ۔ ج زَلْفٌ۔

العَقْبَةُ (الزَّلْفُ) اور دراز گھائی۔

الْمَزْلَفَةُ: آبادی جو پیالہ اور کشت زار کے

درمیان ہو۔ ج مَزْلَفٌ۔ الْعَزْلَفُ: کوچ کرنے

کی جگہیں۔ واحد مَزْلَفَةٌ۔

زَلْفَتْ (س) وَزَلْفَتْ (ن) زَلْفًا: الْقَدَمُ:

قدم پھسلنا۔ بِمَكَانِهِ: جوں جوں پھیلنا۔

زَلْفَةٌ (ض) زَلْفًا وَزَلْفَهُ وَأَزْلَفَهُ: پھسلنا

عَنْ مَكَانِهِ: دور کرنا۔ علیحدہ کرنا

زَانِسَةٌ: سر مونڈنا۔ زَلْفٌ الْمَوْضِعُ: پھسلنے والی

جگہ بنانا۔ زَلْفٌ بَدَنُهُ: بدن پر تیل لگانا۔ أَزْلَفَهُ

وَزَلْفَهُ بِصُورِهِ: غصہ کی وجہ سے تیز نظر سے

دیکھنا۔ اَزْلَفْتُ الْفَوْضَ: گھوڑی کا تمام پتہ کرنا۔

تَزَلْفٌ: اس طرح بننا سنورنا کہ چہرے کی رونق

بڑھ جائے۔

الزَّلْفُ وَالزَّلْفُ وَالزَّلْفُ وَالزَّلْفُ: پھسلنے کی

جگہ۔ أَرْضٌ زَلْفٌ: چھٹی سپاٹ زمین جس میں کچھ

نہ ہو۔

الزَّلْفُ: وہ شخص جس کو جماع کرنے میں دخول

سے پہلے انزال ہو جائے۔

الزَّلْفَةُ: چھٹی چٹان۔ آئینہ۔ نَاقَةٌ (زَلْفُوقٌ) تیز

رفتار والی۔ عَقْبَةُ زَلْفُوقٌ: دور دراز گھائی۔

الزَّلْفِيُّ: ناتمام گرا ہوا پتہ۔

الزَّلْفِيُّ: ایک قسم کا شفتالو۔ واحد زَلْفِيَّةٌ۔

المِزْلَاقُ: ایک قسم کا کالا جو بغیر کچی کے کھل

جاتا ہے۔ ناتمام پتہ کرانے والی گھوڑی۔

الْمَزْلَقُ وَالْمَزْلَقَةُ: پھسلنے کی جگہ۔

الزَّلْفُومُ: کلا۔

زَلْمٌ (ن) زَلْمًا: خُطَاكَرًا: الْإِنَاءُ: برتن

بھرتا۔ الْأَنْفُ: ناک کاٹنا۔ الْعِظَاءُ:

کم دینا۔

زَلْفَةٌ: نرم کرنا۔ بھوار کرنا۔ الْوُحْيُ:

چکی کو گھمانا اور کناروں سے پکڑنا۔

الْعِظَاءُ: کم دینا۔ الْعِدَاءُ: بڑی خوراک

دینا۔

إِزْدَلْمٌ: الشَّيْءُ: کاٹنا۔ جڑ سے کاٹنا۔

إِزْلَامٌ: إِزْلِمَاتًا: الشَّيْءُ: سیدھا اکھڑا ہونا

الْقَوْمُ: جلدی کوچ کرنا۔ إِزْلَامَتْ

الضَّمْحِي: جاشت کے وقت کاروشن ہونا۔
الزَّمْلَم: کھریا اس کا پھیلا۔ بے پر کا تیز۔ ج
أَزْلَام: فال نکلنے کا تیز۔ الزَّمْلَم: ایک قسم کی بولی
جس کے پھل پھول نہیں ہوتے اور اس کی
جزیریں زمین کے بہت اندر اور گہرا ہوتی ہیں
جس میں چوڑے خم ہوتے ہیں اور عوام کے
نزدیک حب العزیز کے نام سے مشہور ہے۔

الزَّمْلَمَةُ وَالزَّمْلَمَةُ وَالزَّمْلَمَةُ: بیتِ تَدَد۔ کہا جاتا
ہے "هُوَ الْعَيْدُ زَلْمَةً" وہ غلام کے مشابہ ہے۔
الزَّمْلَمَةُ: کبری کے کان کا کٹا ہوا ٹکڑا جو ٹکلتا
رہے۔

زَلْمَةٌ: الإِبْرَئِي عِنْدَ الْعَامَةِ: ثَوْنِي۔ فصیح لفظ
بیل ہے۔

الْمُزَلْمُ: پست تَد۔ سبک و چست۔ عریف
الْمُزَلْمُ وَالزَّلِيمُ: مِنَ السَّهَامِ: عمدہ ہاتھو تیز۔
الْمُزَلْمُ وَالزَّلِيمُ: کئے ہوئے کان والا۔
الزَّلِيمَاءُ: الْأَزْلَمُ كَامُونْتِ: مادہ شکر۔ پھاڑی
کبری۔ عمدہ بنایا ہوا تیز۔

زَمَّةٌ (ن) زَمًا: باندھنا۔ الْقَزْبَةُ: مٹک
بھرنے۔ زَمٌ التَّبَعِي بِأَنْفِهِ: ناک میں تکلیف کی وجہ
سے سر اٹھانا۔ الزَّجَلُ بِرَأْسِهِ: سر بلند کرنا
بِأَنْفِهِ: تکبر و گردن کشی کرنا
الْقَوْمُ: رفاہ میں قوم سے آگے بڑھنا۔
وَزَمَّمُ، الْجَمْعَانُ: اونٹ کے گھیل ڈالنا۔ زَمٌ
التَّغْلُ: جود میں تسم لگانا۔ الذَّنْبُ
السَّخْلَةُ: بھیرنے کا کبری کے بچے کو سراو پھا کر
کے لے جانا۔

زَمَّتْ (ن) زَمُوْنَا: الْقَبْرَةُ: مٹک کا بھرنے
نَابُ التَّبَعِي: اونٹ کے دانت لگانا۔

(زَمِيْنَا) الزَّمُوْنَا: بھرا، کھینچنا۔
أَزَمَ: التَّغْلُ: جود میں تسم لگانا۔

زَامَ مَرَامَةً: تکبر کرنا۔ زَامَمْتُ فَلَانًا: مقابلہ
کرنا۔
الزَّمُّ: بندھنا۔

إَزْدَمَ: تکبر سے سر بلند کرنا۔ الذَّنْبُ
السَّخْلَةُ: بھیرنے کا کبری کے بچے کو سر بلند کر
کے لے جانا۔

الزَّمَامُ: جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ مہار۔

بَاگ۔ گھیل۔ لگام۔ جِ أَمَّةٌ: زَمَامُ التَّغْلُ: جوستے کا
تسم۔ کہا جاتا ہے "هُوَ زَمَامُ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کا
سر دار و چودھری ہے۔ و "هُوَ زَمَامُ الْأَمْرِ": یعنی
اس پر کام کا دار و مدار ہے و "الْقَوَائِي يَدِيهِ زَمَامُ
الْأَمْرِ": لوگوں نے اپنا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے
دیا کہ جس طرح چاہے فیصلہ کرے۔ و "هُوَ عَلِيُّ
زَمَامِ أَمْرِهِ": وہ اپنے کام کے پورا ہونے کے
قریب ہے و "هُوَ يَتَصَرَّفُ أَمَّةَ الْأَمْرِ": وہ جس
طرح چاہتا ہے امور میں تصرف کرتا ہے۔

الزَّمَامُ: قَا۔ وَجَلَّ زَمَامٌ: گھرانے والا مرد جِ زَمَمٌ
کہا جاتا ہے۔ "ذَارِي مِنْ ذَارِهِ (زَمَمٌ)" میرا گھر
اس کے گھر کے قریب ہے و "أَمْرُ الْقَوْمِ زَمَمٌ"
قوم کے معاملے قریب قریب ہیں و "وَجْهِي زَمَمٌ"
بیتھ میرا چہرہ اس کے گھر کے مقابل ہے۔

الزَّمَامُ: اونچی گھاس۔
الزَّمِيمُ: مینے کے آخر کا چاند۔

زَمَّتْ (ك) زَمَاتَةٌ وَتَزَمَّتْ: سنجیدہ و صاحب
وقار ہونا۔ صفت (زَمِيْتُ) جِ زَمْتَاءُ (زَمِيْتُ)
زَمْتَةٌ (س) زَمْتًا: گامٹھنا۔

زَمَجَ (ن) زَمَجًا: الْقَبْرَةُ: مٹک بھرنے۔
عَلَيْهِمْ: بغیر بلائے ہوئے آکر کھانا۔

زَمِيحٌ (س) زَمِيحًا: غصبتاگ ہونا۔ صفت
(زَمِيحٌ) کہا جاتا ہے۔ أَخَذَهُ (بِرَأْسِهِ) یعنی اس
نے سارا لے لیا۔

الزَّمِيحُ: عقاب سے چھوٹا ایک سرخ رنگ کا
شکاری پرندہ۔ جِ زَمَامِيحٌ: زَمِيحُ الْمَاءِ: ایک آبی
پرندہ جو صرف چھل کھاتا ہے۔

الزَّمِيحِيُّ: پرندہ کی دم کی جڑ۔
زَمِيحَةٌ: الظَّلِيمُ: شتر مرغ کی چوچ۔

الْمُزَمِيحُ: غصبتاگ۔
زَمِيحٌ زَمِيحَةٌ: شور مچانا (و تَزَمِيحٌ)
الْأَسَدُ: شیر کا چنگھارنا۔

إَزَمِيحًا: آواز کرنا۔
الزَّمِيحَةُ: مہ۔ باسری۔ زَمِيحَةٌ كُلُّ شَيْءٍ: ہر
چیز کی آواز۔ جِ زَمَامِجُورٌ وَفَاجِيحُورٌ۔

الزَّمِيحِيُّ: چیتا۔
الزَّمِيحُ الزَّمِيحُ: کینہ۔ پست تَد۔ بد صورت۔

کالے رنگ کا۔ بد صورت و شریر۔

الزَّمِيحُ: پھوڑا۔

الزَّمِيحِيُّ: مرد۔ بد خلق۔ تھیل۔

زَمِيحٌ (ف) زَمِيحًا: تکبر کرنا۔ صفت (زَمِيحٌ)
جِ زَمِيحٌ۔

عَقَبَةُ (زَمِيحٌ وَزَمِيحٌ) اور روراز و سخت گھالی۔
زَمِيحٌ: التَّمَرُ: چیتے کا غصہ سے دھاڑنا۔

(الْعَشْبُ): گھونڈ والا ہونا اور بڑھنا۔

(وَأَزَمِيحُ الصَّوْتُ): آواز کا تیز ہونا۔

تَزَمِيحًا: التَّمَرُ: چیتے کا غصبتاگ ہونا اور
دھاڑنا۔

الزَّمِيحُ: بڑی باسری۔ بہت گھبان درخت۔

زَمِيحٌ زَمِيحٌ: عالی مرتبہ مرد ()
وَالزَّمِيحِيُّ: کھوکھلی ہڈی۔

الزَّمِيحَةُ: زانیہ عورت۔ زَمِيحَةٌ
الشَّيْبُ: بھریور جوانی۔ الشَّجَرُ:

درخت کا گھبان ہونا۔

الزَّمِيحِيُّ: توڑا۔

زَمَرٌ (ض) زَمَرًا وَزَمِيْرًا: باسری بھانا
بِالْحَدِيثِ: بات پھیلانا () زَمَرًا

الْقَبْرَةُ: مٹک بھرنے۔ فَلَانًا بِفُلَانٍ:

آکسانا۔ بھراکانا (ض) زَمَرْنَا، الظَّنِّي: ہرن
کا بھانا۔ پدکانا۔ زَمَرْنَا التَّعَامُ: شتر مرغ کا
آواز کرنا۔

زَمَرٌ (س) زَمَرًا: کم ہالوں والا ہونا۔ بے مروت
ہونا۔ الشَّاةُ: کم اون والی ہونا۔

زَمَرٌ: باسری بھانا۔ الْقَبْرَةُ: مٹک بھرنے۔
إِزْمَارًا: غصہ سے سرخ آنکھوں والا ہونا۔

إِسْتَزَمَرُ: الرَّجُلُ عِنْدَ الْهَوَانِ: ذلت کی وجہ
سے منتبض ہونا۔

الزَّمَرُ: مہ۔ (و الزَّمَرُ) آواز جِ زَمُوْنَا۔

الزَّمَرُ: باسری بھانے والا۔ يَغْنَاءُ زَمِيْرًا: عمدہ
گانا۔ کم ہالوں یا کم اون والا۔ کم مروت والا۔ مَزْمِيحٌ
زَمِيْرَةٌ عَظِيْمَةٌ زَمِيْرَةٌ: تھوڑی داؤد و حش۔

الزَّمَارُ: مہ۔ شتر مرغ کی آواز۔

الزَّمِيْرَةُ: سخت و درشت۔

الزَّمِيْرَةُ: مہ۔ پست تَد۔ جِ زَمَارٌ ()
وَالزَّمُوْنَا: خوبصورت لڑکا۔ شَاءُ زَمِيْرًا: عمدہ

گانا۔

<p>الزَّنْباق - ایک قسم کا ساگ۔ الزَّنْبُل - پستہ قدم۔ تَزْنَعُ - تاز سے چلنا۔ الزَّنْفَرَةُ - تنگی۔ عسرت۔ زَنْج (س) زَنْجَعًا - پیاس سے آنتوں کا سکرنا۔ زَنْجَعُهُ - بڑائی یا بھلائی کا بدلہ دینا۔ تَزْنَجُ - عَلِيَّهِ - دوست درازی کرنا۔ الزَّوْجِ وَالزَّوْجِ - جمعی واحد (زنجی) ج زَنْجُج - الزَّوْجِج - بدلہ۔ الزَّنْجَبُ وَالزَّنْجَبَانُ - کمر بند۔ الزَّنْجَبَةُ - گدی جس کو عورتیں اپنے سرین پر بڑا معلوم ہونے کیلئے باندھتی ہیں۔ الزَّنْجَبِيْلُ - سونٹھ۔ شراب۔ زَنْجُوْرٌ - انگوٹھے کے ناخن کو اگھت شہادت کے ناخن سے مارنا۔ الزَّنْجَارُ - تانچے کا رنگ۔ الزَّنْجِيْرُ وَالزَّنْجِيْرَةُ - سپیدی جو جوانوں کے ناخن پر ہوتی ہے۔ الزَّنْجِيْرُ : ناخن کا لٹکا ہوا حصہ۔ زَنْجِيْرٌ - اس سے نعل کا اشتقاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں (زَنْجِيْرَةٌ فَتَزْنَجُوْرٌ) یعنی اس نے اسے قید کیا اور وہ قید ہو گیا اور عوام کہتے ہیں۔ جَنْزِيْرُوْ جَنْزِيْرَةٌ۔ الزَّنْجُفَرُ وَالزَّنْجُفَرُ - شگرف۔ الزَّنْجِيْلُ - کمزور دست بدن والا مرد۔ زَنْجَعُهُ (ف) زَنْجَعًا - تعریف کرنا۔ دفع کرنا۔ محاملہ میں تنگی کرنا۔ زَنْجَعُهُ - ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ زَنْجُحٌ وَتَزْنَجُحُ - بار بار پانی پینا و تَزْنَجُحُ الزَّنْجُلُ : کل کر گفتگو کرنا۔ اپنے آپ کو مرتبہ سے زیادہ ظاہر کرنا۔ کسی محاملہ یا فرض میں تنگی برتنا۔ الزَّنْجُحُ - بدلہ۔ زَنْجِغُ (ف) زَنْجَعًا - الدهن : تیل کا بگڑنا۔ خراب ہونا۔ صفت (زَنْجِغُ) زَنْجِغُ (ن) زَنْجُوْحًا - القَوَاذُ : چھیڑی کا چھیننا۔ زَنْجَعُهُ - ایک دوسرے کو ہانا۔ تَزْنَجُحُ - تکبر کرنا۔ کل کر گفتگو کرنا۔</p>	<p>بِكَذَا - قسمت لگانا۔ زَنْجُ - الزَّنْجُلُ - ہمیشہ ماش کھانا۔ الزِّنْ - ماش۔ الزَّنْفَنُ - تنگ۔ مَاءُ زَنْفَنٍ - تھوڑا پانی۔ جِلْدُ (زَنْفَانِ) تھوڑا ساہیہ۔ حِنْطَةُ (زَنْةٌ) گیہوں جس کو بارش کے علاوہ پانی دیا گیا ہو۔ الزَّنْفِنُ - یاخانہ یا پیشاب روکنے والا۔ اَنْبُوْرَةٌ - انگور۔ زَنْأُ (ف) زَنْأُوْ وَزَنْوَةٌ - اِلَيْهِ - پناہ لینا۔ یعنی الجَبَلُ : پہاڑ چڑھنا۔ الظَّلُ : سایہ کا سناٹا الزَّنْجُلُ : خوش ہونا۔ جلدی کرنا۔ زمین سے چٹنا۔ بُوْلُهُ زَنْأُ - پیشاب روکنا۔ بُوْلُهُ زَنْوَةٌ - پیشاب روکنا۔ زَنْأًا عَلَيَّهِ - تنگی کرنا۔ اَزْنَاهُ اَزْنَاءُ - مجبور کرنا۔ چڑھانا۔ باز رکھنا۔ الزَّنَاءُ - پست قدم۔ پیشاب یا پاخانہ روکنے والا۔ تنگ۔ قبر۔ الزَّنْبِيْ - چھوٹی مٹک۔ زَنْبِ (س) زَنْبًا - موٹا ہونا۔ الاَزْنَبُ - موٹا پست قدم۔ الزَّنْبَقُ - بزدل۔ ایک خوشبو دار خوش منظر درخت۔ الزَّائِيْجُ - آہستہ چال۔ زَنْابَةٌ - العَقْرَبُ : بچھو کا ٹک۔ تَزْنِيْبُوْرٌ - عَلِيَّهِ : تکبر کرنا۔ ترشروی کرنا۔ الزَّنْبُوْرُ - شیر۔ الزَّنْبُوْرُ - بھڑا۔ ایک درخت جو چنار کی مانند ہوتا ہے۔ الزَّنْبُوْرِيْ - بھاری بھرم مرد۔ بڑی کشش۔ کہا جاتا ہے سَفِيْفَةٌ زَنْبُوْرِيَّةٌ۔ اَرْضُ (مَنْبُوْرَةٌ) بہت بھڑوں والی زمین۔ الزَّنْبُوْرُ - گھڑی کا اسپرنگ (یہ کلمہ فارسی ہے) اس کے مقابلہ میں "التَّابِضُ" کا کلمہ وضع کیا گیا ہے۔ الزَّنْبَاعَةُ - چرمی موزے یا جوتے کی نوک۔ الزَّنْبِيْقُ - سوسن سفید یا سفید چنبیلی۔ واحد زَنْبِقَةٌ۔ چنبیلی کا تیل۔ بانسری۔ ج زَنْبَاقٌ اَمْ زَنْبِقُ : شراب۔</p>	<p>الْاَزْمِيْلُ - راہی۔ چھینی۔ تھوڑا۔ مضبوط مرد۔ کمزور مرد۔ (ضد) الْمَرْمِيْلُ وَالْمَنْزَمِيْلُ - کپڑوں میں پٹنے والا۔ الْمَرْمِيْلَةُ - الْمَرْمِيْلُ کا سونٹ پانی سرد کرنے کا گھڑا یا ٹکا۔ زَمِيْنُ (س) زَمَتْا وَزَمْتَةٌ - لجا ہونا۔ اَزْمَنَ - الشَّيْءُ : دیر تک باقی رہنا۔ ہ اللّٰهُ : لٹھے پین میں جٹلا کرنا۔ بِالْمَكَانِ : مدت تک اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے "اَزْمِنَ عَتِيْمِي عَطَاوُكُ" الزَّمَنُ - ج اَزْمَانٌ وَاَزْمَنٌ وَ الزَّمَانُ - ج اَزْمِيْنَةٌ وَ الزَّمِيْنَةُ - وقت۔ اَزْمِيْنَةُ السَّنَةِ - سال کی چاروں فصلیں۔ ہمار۔ گرمی۔ برسات۔ جاڑا۔ زَمَنٌ (زَمِيْن) سخت زمانہ۔ الزَّمَانَةُ - آفت۔ لجاہیں۔ قوتوں کی بے حسی۔ محبت۔ الزَّمِيْنُ - ج زَمِيْنُوْنٌ وَ الزَّمِيْنِ ج زَمِيْنِيْ وَ زَمِيْنَةٌ - لجا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِيْنٌ زَمِيْنِيَّةٌ" فلاں کمزور خواہش والا ہے۔ عَامِلَةٌ (مَنْزَمِيْنَةٌ) اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔ الْمَرْمِيْنُ - فام مَرْمِيْنٌ : پرانا مرض۔ زَمِيْنَةٌ (س) زَمِيْنَةٌ - مَرْمِيْنٌ : گرمی تیز ہونا۔ الزَّنْجُلُ بِالْحَمِيْرِ : گرمی تیز لگانا۔ زَمِيْنَةٌ (س) زَمِيْنَةٌ - الشَّمْسُ الزَّنْجُلُ : تیز دھوپ لگانا۔ زَمِيْنَةٌ - الْعَيْنُ : آنکھ کا غصہ سے سرخ ہونا۔ اَزْمِيْنَةٌ - الْبُؤْسُ : سخت سردی والا ہونا۔ الزَّمِيْنَةُ : چہرہ کا بگڑنا۔ الْكُوْمُ اَكْبُ : ستاروں کا چمکنا۔ الْعَيْنُ : آنکھ کا غصہ سے سرخ ہونا۔ الزَّمِيْنَةُ - سخت سردی۔ الْمَرْمِيْنَةُ - سخت غضبناک۔ ہسنے والا۔ اَزْمِيْنَةُ - الْمَطَرُ : برسا۔ الْقَلْبُجُ : برف کا کھٹنے کے بعد برسا۔ زَمَانٌ (ن) زَمَانًا - عَصَبَةٌ : شے کا خشک ہونا۔ الزَّنْجُلُ : ڈھیلے جوڑوں والا ہونا (زَمِيْنَةٌ) وَ اَزْمَةٌ - بِغِيْرٍ وَ اَشْرٌ : نیک یا بد گمان کرنا۔</p>
---	---	---

اہل (زندقہ) پیاس کی وجہ سے سٹے ہوئے
پیٹ والے اونٹ۔
زَنَعْرُ بِمَنْعَرِهِ: خرا لے لیتا۔
زَنَدَان (ض) زَنَدَا: الإناء: برتن کو بھرتا۔
النَّاز: جھمکان سے آگ نکالنا۔
زَنَد (س) زَنَدَا: الزَّجَلُ: پیاسا ہونا۔
زَنَدَ: جھوٹ بولنا۔ جھمکان سے آگ نکالنا۔
السَّقاء مٹک بھرتا _____ فی الأمر:
ٹنگ دل ہونا _____ علی اہلبہ: سختی برتنا۔ کہا
جاتا ہے "مَا يُزِيدُكَ أَحَدًا عَلَيْهِ" یعنی تمہارے
لئے کوئی زیادہ نہیں کرے گا۔
أَزَنَدَ: الشَّيْءُ: زیادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا
يُزِيدُكَ أَحَدًا عَلَيْهِ" یعنی تمہارے لئے کوئی زیادہ
نہیں کرے گا _____ الزَّجَلُ فِي وَجْهِهِ: مرد کا
اپنی بہاری میں دوبارہ جھلا ہونا۔
تَزَنَدَ: غھینٹنا۔ ہونا۔ جواب نہ دے سکتا۔ تم
کہتے ہو "سَأَلْتَهُ مَسْئَلَةً فَتَزَنَدَ" میں نے اس
سے ایک مسئلہ پوچھا اور وہ جواب نہیں دے سکا۔
_____ فِي الْأَمْرِ كَذَا: ٹنگ دل ہونا۔
الزَّنْدُ: سہ۔ ہاتھ کا ٹکٹا۔ جھمکان کی اوپر والی لکڑی
یا پتھر اور نچلے کو (الزَّنْدَةُ) اور دونوں کو (الزندان)
کہتے ہیں۔ جَزَنَادَا أَزَنَدُوا: ازادنا۔
اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَإِثْنُ الزَّنْدِ" فلاں
کامیاب ہے۔ و "فَلَانٌ كَأَمِيِّ الزَّنْدِ" فلاں نا
کامیاب ہے و "هَمًّا كَزَّنْدِيْنِ" وہ دونوں
مساوی ہیں اس کا استعمال عموماً دعات و حسرت
میں ہوتا ہے اور ان دونوں آدمیوں کیلئے بھی
بولتے ہیں جن کی وجہ سے حاجت پوری ہو اور جو
تمہاری مدد کرے اس کیلئے کہتے ہو "وَزَتْ بِلَتْ
زَنَادِي" یعنی تمہاری وجہ سے میری حاجت
پوری ہوئی۔
المُزَنَّدُ: ٹنگ۔ تجھیل۔ منہ بولا بیانا۔ کم چوڑا کپڑا۔
عِظَاءُ مُزَنَّدٌ: تھوڑی بخشش۔
الزَّنْدِيْلُ: بڑا ہاتھی۔ (عرب)
تَزَنَّقُ: بے دین ہونا۔ خود دانہ۔ باطنی کافر
ہونا۔ صفت زَنْدِيْقُ: جَزَنَادِقَةٌ وَزَنَادِيْقُ
الزَّنْدَقَةُ: ظاہری ایمان و باطنی کفر۔ زَجَلٌ
(زَنَدٌ وَزَنَدٌ فِي) بہت تجھیل۔

زَنَوَان (زَنَوَا: الإناء: برتن بھرتا۔
_____ الغلام: لڑکے کو جنینوں پر سنانا۔
زَنَوُ: الیٰی بَعِيْنِهِ: گھور کر دیکھنا۔
تَزَنَوُ: جَنِيْنًا: الشَّيْءُ: باریک ہونا۔
الزَّنَارُ: جَزَنَائِيْرُ وَ الزَّنَارَةُ: جَنِيْنُو: الزَّنَائِيْرُ:
چھوٹی ٹنگریاں۔
الزَّنَزَلْعَتُ: ایک درخت کا نام۔
زَنَيْف (س) زَنَفَاو تَزَنَّفَ: غھینٹنا۔ ہونا۔
زَنَق (ن) زَنَقَاو زَنَقُ: الفَرَسُ: گھوڑے کا
نچلے جڑے کے نیچے تسمہ لگانا۔
_____ التَّغْلُ: ٹھجری ٹانگوں میں پائے بند باندھنا۔
_____ وَزَنَقُ وَآزَنَقُ: عَلٰی أَوْلَادِهِ: اولاد پر نقتہ
میں ٹھگی کرنا۔
الزَّنَقُ: نیزے کی نوک۔ گھوڑے کا ٹھلا جڑا
جہاں تسمہ باندھتے ہیں۔ جَزَنُوْقُ:
الزَّنَقَةُ: ٹنگ گلی۔
الزَّنَاقُ: گھوڑے کے نچلے جڑے کے نیچے کا
تسمہ۔ ٹھجری کا پائے بند۔ عورتوں کا ایک زیور۔
جَزَنُوْقُ:
الزَّنَاقَةُ: گھوڑے کے جڑے کے نیچے کے تسمہ
کا حلقہ۔
الزَّنِيْقُ: درست۔ مضبوط۔ کہا جاتا ہے "زَائِقٌ
زَنِيْقٌ" درست رائے۔
المَزَنُوْقُ: سہ۔ بند پٹیٹا ہوا۔
الزَّنْفِيْرُ: تراشہ ناخن۔
زَنَقَلُ: الٰی مَشِيْبِهِ: اگر اہل ہو کر چلنا۔
الزَّنَاكِي: شوخ و بیباک۔
الزَّنَوْنِكُ: بد صورت۔ پستہ تہ منگبر۔ اپنے
مرتبے سے آپ کو زیادہ سمجھنے والا۔
زَنَمَ لَهٗ العِصْمَ: کسی کو وکیل خصوصت بنا کر
بھیجنا۔
الزَّنَمَةُ: کان کا وہ حصہ جو کاٹ دیا جائے اور لٹکتا
رہے۔ حلق کے نیچے کا ٹکٹا ہوا گوشت۔ علامت۔
زَنَمَتَا الْأُخُنَّ: کان کی لو کے قریب ابھرا ہوا حصہ۔
کہا جاتا ہے "فِي كَلَامِهِ زَنَمَةٌ خَيْرٌ أَوْ زَنَمَةٌ
شُرٌّ" یعنی اس کے کلام میں خیر یا شر کی علامت ہے۔
الزَّنِمُ: مِنَ الْجِمَامِ: اونٹ جس کے کان کا
کچھ حصہ کاٹ دیا جائے اور وہ لٹکتا رہے۔ مؤنث

زَنَمَةٌ:
الزَّنِمُ: مِنَ الْجِمَامِ: بمعنی الزَّنِمُ۔ مؤنث
زَنَمَاءُ: جَزَنَمُ:
الزَّنَامُ: سمیبت۔
الزَّنِيْمُ: کینہ۔ منہ بولا بیانا _____ وَالْمُزَنَّمُ)
اپنی آدمی جو قوم میں داخل ہو جائے اور قوم
کے لوگ اس کے حاجت مند نہ ہوں۔
نَاقَةٌ مُزَنَّمَةٌ: اونٹنی جس کے کان کا کچھ حصہ
کاٹ کر لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جائے۔
زَنَان (ن) زَنَوَا: ٹنگ ہونا۔ صفت (زَنِيْقُ)
زَنِي تَزَنِيْعَةً عَلَیْهِ: ٹھگی کرنا۔
زَنِي (ض) زَنِي وَزَنَاءُ وَزَنَائِي مَزَنَاءَةٌ وَزَنَاءُ:
زنا کرنا۔ صفت (زَان) جَزَنَاءَةُ: صفت مؤنث
زَانِيْعٌ جَزَوَانُ:
زَنِي ه: زنا کی نسبت کرنا یا زانی کہنا۔
أَزَنِي: أَزَنَاءُ: زنا کرنے پر آسانا۔
الزَّنِيْبَةُ: زنا کرنے والا۔ (تساہلہ کیلئے ہے)۔
الزَّنَاءَةُ: بہت زنا کرنے والی۔ بندر یا۔
الزَّنِيْبَةُ: مرد کا آخری پتھر۔
زہ۔ کلمہ استحسان بمعنی خوب اور کبھی تخمک کے
طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے بڑائی کرنے
والے کے لیے کہا جائے "أَحْسَنْتُ"
الزَّهْبُ وَ الزَّهْبَةُ: مال کا ایک حصہ۔
زَهْدٌ وَ زَهْدٌ (س) ن) وَ زَهْدٌ (ک) زُهْدًا وَ
زَهَادَةً: فِي الشَّيْءِ وَ عِنْدَهُ: بے رغبتی کر کے
چھوڑ دینا اور اسی سے ہے "زَهْدٌ فِي الدُّنْيَا" اس
نے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو عبادت کے
لیے فارغ کر لیا۔ صفت فاعلی (زَاهِدٌ) وَ صفت
مفعولی (مُزْهَدٌ) فَيُذَوِّدُ عِنْدَهُ:
زَهْدٌ زَهْدًا: التَّخَلُّعُ: کھجور کے درخت پر
پھلوں کا اندازہ کرنا۔
زَهْدَةٌ: فِي الشَّيْءِ وَ عِنْدَهُ: بے رغبت کرنا۔
(زَهْدٌ وَ أَزْهَدٌ) التَّخَلُّعُ: کھجور کے درخت پر
پھلوں کا اندازہ کرنا۔
تَزَهَّدَ: عبادت کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا۔
تَزَاهَدَ: الْقَوْمُ فَلَانًا: حثارت کرنا۔
أَزْهَدَ: الشَّيْءُ: کم سمجھنا کہا جاتا ہے "مُحَدِّ
(زَهْدٌ) مَا يَكْبِيْتُكَ" جتنا تم کو کافی ہو اس کو لے

۱۔ _____ ہ بالشو: بڑائی پر آسانا _____ بضا
 طلبیہ: پورا کرنا _____ بالشی: تعجب کرنا
 _____ الخیر: خبر میں زیادتی کرنا _____ لہ
 حدیثاً: جموںی بات بیان کرنا _____ الیہ
 حدیثاً: قول روئی کی نسبت کرنا۔
 انزھفت۔ الذابۃ: بارو غیرہ سے اچھلنا۔
 تزھف۔ عنۃ: امراض کرنا۔
 ازڈھف۔ الی المصوب: موت سے قریب
 ہونا _____ عنۃ: امراض کرنا _____ الشی:
 منحرف ہونا _____ ہ: جلدی کرنا۔ ہلاک کرنا
 _____ ہ الذابۃ: جانور کا گردنا _____ الشی
 وہ: بے جا _____ العداۃ و بہا: دشمنی
 اختیار کرنا _____ الجھل: بوجھ اٹھانا _____
 فلانی: ہدی میں گھسا۔ گھنگو میں زیادتی کرنا
 _____ فی کلابہ: سختی کرنا اور آواز بلند کرنا۔
 زھق (ف) زھوقاً۔ العظم: ہڈی کا مغز سے پڑ
 ہونا _____ الباطل: نیست و نابود ہونا۔ کزور
 ہونا (_____ زھقاً و زھوقاً) النفس: _____
 روح کا جسم سے لگانا _____ الزاحلۃ: سواری
 کا آگے بڑھنا _____ الشی: تاجہ ہونا۔ ہلاک ہونا
 _____ السہم: تیر کا نشانہ سے گزر جانا۔
 ازھق۔ العظم: ہڈی کا مغز سے پر ہونا۔
 _____ الاناء: برتن بھرنا _____ الباطل:
 باطل کو نیست و نابود کرنا _____ السہم: تیر کا
 نشانہ سے گزانا _____ الناقۃ السنج: زمین کو
 آگے بڑھا کر گردن پر ڈال لینا _____ فی
 السیر: تیز چلنا۔
 زھق۔ الحق الباطل: حق کا باطل کو نیست و
 نابود کرنا _____ الاناء: برتن کو الٹ دینا۔
 انزھق۔ آگے بڑھنا۔ انزھقت الذابۃ: بار
 وغیرہ سے اچھلنا۔
 الذھق۔ پست زمین _____ والذھق: گڑھا۔
 الزھق۔ فا۔ موٹا جانور۔ قوی۔ لاغر (ضد)
 کھست خوردہ _____ من السہام: نشانہ سے
 تجموز کرنے والا تیر _____ من المیابہ: تیز چلنے
 والا پانی۔ ج زھق و زھق (_____ والذھق)
 ہلاک ہونے والا۔ باطل۔ گمراہیوں۔
 الزھق۔ پھرنا۔ سبک۔

"فَضِيَتْ مِنْهُ زَهْرِي وَزَهْرِي" اس سے میں
 نے اپنی حاجت پوری کی۔
 الزھر۔ سینے کی پہلی تین راتیں (مانند غور کے)
 الزھوۃ۔ خوبصورتی۔
 الزھوۃ۔ ایک سیارہ کا نام۔ یونانیوں کے علم
 الامان میں اس کو حسن و جمال کی دیوی مانتے تھے۔
 الزھیر۔ فا۔ خوشنما پودہ۔ چکدار صاف رنگ
 والا۔ کما جاتا ہے "أخمر زاهر" بہت سرخ۔
 الزھیرۃ۔ نازکی چال۔ کما جاتا ہے "ھونئیشی
 الزھیرۃ" وہ ناز سے چلتا ہے۔
 الأزھر۔ روشن۔ صاف رنگ والا۔ روشن چہرہ
 والا۔ جھکاوں۔ تازہ دودھ۔ سپید رنگ کا شیر۔ چاند۔
 جنگلی تیل۔ مومنٹ زھوا۔ عجم زھو۔
 الأزھوان۔ آفتاب و ماہتاب۔
 الزھراوان۔ من سور القرآن: سورۃ بقرہ و
 سورۃ آل عمران۔
 الزھار۔ بہت چکدار۔ کما جاتا ہے "نجم زھار"
 و قمر نواز۔"
 الزھیر۔ فا۔ مہمانوں کیلئے آگ روشن رکھنے
 والا۔
 المیزھر۔ ایک قسم کا باجا۔ ج مزہیر۔
 زھرف۔ الشی: کھولنا۔
 زھرق۔ الزجل: بہت ہنسنا۔ زھرقب الأم
 ولدھا۔ نل کا پچھڑ کو کدنا۔
 الزھرق۔ کینہ۔ فرمایا۔
 زھف (ف) زھوقاً۔ الزجل: ذلیل ہونا۔ ہلاک
 ہونا۔ جموت ہونا _____ للمصوب او الی
 المصوب: قریب الہرگ ہونا۔
 زھف (س) زھقاً۔ للشی: جلدی کرنا۔ جست
 ہونا۔
 ازھف۔ الیہ الطغنة: قریب کرنا۔
 ازھفته الطغنة: قریب بہ ہلاک کرنا۔ ازھف
 علی البحریح: حمد کر کے نور آرا ڈالنا _____
 الزجل: جموت ہونا۔ خیانت کرنا۔ چھل خودی
 کرنا۔ بڑائی کی طرف جلدی کرنا _____ فلانا:
 ذلیل کرنا۔ کسی کے ساتھ بدی کرنا۔ ہلاک کرنا
 _____ الشی: ڈھیلنا۔ جلدی کرنا۔ لے جانا۔
 خراب کرنا۔

الزھد و الزھادۃ۔ حارث کی وجہ سے بے
 رغبتی۔
 الزھد۔ زکوٰۃ۔ ج زھاد۔
 أرض زھاد (زھاد) زمین جو بہت پانی برسنے سے بے۔
 الزھاد۔ فا۔ آخرت کی محبت کی وجہ سے دنیا
 سے بے رغبت۔ تک خو۔ ج زھد و زہاد و
 زھادون۔
 الزھید۔ کم حقیر۔ مومنٹ زھیدۃ۔ کما جاتا ہے
 "ھو زھید الخلق" وہ تک خو ہے۔ "ھو زھید
 العین" وہ سیر چشم ہے۔ تھوڑے پر تعامت کرتا
 ہے۔ و "واذ زھید" کما پالی کو لینے والی وادی۔ ج
 زھدان۔
 الزھید۔ بہت بے رغبتی کرنے والا۔
 الزھید۔ کم بال والا۔
 زھو (ف) زھوزاً۔ السواج او القموز او
 الوجہ: چمکانا۔ روشن ہونا _____ الشی:
 صاف رنگ وال ہونا _____ الزند: بہت مقل سے
 آگ روشن ہونا۔ کما جاتا ہے "زھرت بک
 زنادی اوتاری" تمہاری وجہ سے مجھے قوت
 حاصل ہوئی اور میں معزز ہوا۔
 زھو (س) زھوا او زھو (ک) زھوزۃ۔
 الوجل: خوبصورت و بارون ہونا۔
 ازھر۔ التبات: کلی لگانا _____ التاز: آگ
 روشن کرنا۔
 ازڈھو۔ روشن ہونا۔ چکدار ہونا۔
 بالامر: گمراہی کرنا۔ دل میں رکھنا۔ کما جاتا
 ہے "ازڈھو بهذا افاق لہ شاناً" اس کی حفاظت
 کرو اس لیے کہ اس کیلئے ایک خاص شان ہے۔
 ازھو و ازھار۔ التبات: کلی لگانا۔ شگوفہ دار
 ہونا۔
 تزھزہ۔ السواج و نحوہ: چراغ وغیرہ کا
 روشن ہونا۔
 الزھر و الزھیر۔ کلی۔ شگوفہ۔ واحد (زھوۃ و
 زھوۃ) زھوۃ الدنيا: دنیا کی رونق و خوبی۔ ج
 ازھر و ازہار و زھوز۔ ج ازہر و ازہیر۔
 زھو التزد: تاش۔
 الزھو و الزھوۃ۔ حاجت۔ کما جاتا ہے

فروش (زَهْمِي) سبقت لے جانے والا گھوڑا۔
 الزَاهِقَةُ: الزاهق کا مؤنث۔ پُتْرُ زَاهِقَةٍ: گھرا
 کنواں۔
 الزَّهَاقُ وَالزَّهَاقُ: مقدار۔ تقریباً۔ کہا جاتا ہے
 ”عِنْدِي زَهَاقٌ مِائَةٌ دِينَارٌ“ میرے پاس تقریباً
 سو دینار ہیں۔
 جَاءَتِ الْخَيْلُ (أَزْهَقٌ وَأَزْهِيقٌ)
 گھوڑوں کی متفرق جماعتیں آئیں۔
 الْأَزْهُقَةُ: عجیب قسم کی دوڑ۔ جِزْجِزَ الْأَزْهِيقُ کہا
 جاتا ہے ”فَرَسٌ ذَاتُ أَزْهِيقٍ“ عجیب قسم سے
 دوڑنے والا گھوڑا۔
 الْمَرْهَقَةُ: سب بطلان۔ سب ہلاکت۔ کہا جاتا
 ہے ”جَمَلٌ مَرْهَقَةٌ لِأَزْوَاجِ الْمَطِيِّ“ اونٹ
 سواریوں کی روح کیلئے باعث ہلاکت ہیں۔ یعنی
 سواریاں پوری کوشش کرتی ہیں اور اونٹوں کے
 ساتھ لاحق نہیں ہوتیں۔
 زَهَكَ (ف) زَهَكَ: کوٹنا۔ الرِّيحُ
 الْأَرْضِ: ہوا کا خاک کو اڑانا۔
 زَهَلَ (س) زَهَلَا الشَّيْءُ: سفید و چمکنا ہونا۔
 زَهَلَ (ف) زَهَلَا عَنِ الشَّيْءِ: دور ہونا۔
 الزَّاهِلُ: فا۔ مطمئن دل والا۔
 الزُّهْلُولُ: چمکانا۔ جِزْجِزَ زَهَالِيْلٌ۔
 زَجَلٌ (زَهَلَبٌ) سبک و اڑھی والا مرد۔
 زَهَلَجَ زَهَلَجَةً: ایک دوسرے کے ساتھ
 نرمی کرنا۔
 تَزَهَلَجَ: التَّفُوحُ: بیزے کا سیدھا گالنا۔
 زَهَلَفَ الشَّيْءُ: جاری کرنا۔ جائز رکھنا۔
 زَهَلَقَ الشَّيْءُ: چمکانا سفید کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”زَهَلَقَ لَهُ الْخَدِيثُ“ اس نے اس کو نرم و منگھو
 سے مخاطب کیا۔
 تَزَهَلَقَ: چمکانا سفید ہونا و تَزَهَلَقَ الْخَيْوَانُ“
 موٹا ہونا۔
 الزَّهْلِقُ: چمکانا۔ ہلکا چمکانا۔ تیز ہونا۔ ہیج کی
 لوکی جگہ۔ حَمَازٌ زَهْلِقٌ: ہوا پر بیٹھ و موٹا گدھا۔
 جِزْجِزَ زَهَالِيْقٌ۔
 الزُّهْلُوْقُ: موٹا۔
 زَهَمَ (ن) زَهَمًا وَأَزْهَمَ: الْعَظْمُ: ہڈی کا
 پُرمغز ہونا۔ زَهَمَهُ عَنِ كَذَا: روکنا۔ زَهَمَ

الزَّجْلُ عَلَيْهِ: بہت باتیں کرنا۔
 زَهَمَ (س) زَهَمًا: بد ہنسی والا ہونا۔ صفت
 (زَهْمَانٌ) چمکانا۔ والا چربی دار ہونا۔ صفت
 (زَهْمٌ) مؤنث زَهْمَةٌ۔
 زَاهِمَةٌ: باہم دشمنی کرنا۔ باہم دوستی کرنا۔ ایک
 دوسرے سے جدا ہونا۔ ایک دوسرے کے قریب
 ہونا۔ (ضد)
 الزَّهْمُ: بددوار ہونا۔ چربی۔ ایک خوشبو کا نام جو
 الزبار کے نام سے مشہور ہے۔ (دیکھئے لفظ الزَّيْبَادِ)
 الزَّهْمَةُ وَالزُّهْمَةُ وَالزَّهْمُ: سڑے ہوئے
 گوشت کی بدبو۔
 زَهَا (ن) زَهْوًا وَزَهْوًا وَزَهَاءً: چمکانا۔ روشن
 ہونا۔ بوجھنا۔ نشوونما پانا۔ التَّخَلُّ: درخت
 خرا کا لہنا ہونا۔ البَشْرُ: رنگ پکڑنا۔
 الْعُلَامُ: بلا کے کا جان ہونا۔ التَّبْتُ: پھل
 دار ہونا۔ الشَّاةُ بَكْرِي قَرِيبٌ: ولادت کی وجہ
 سے تھن والی ہونا۔ الرِّيحُ: چلنا۔
 الزَّجْلُ: جھوٹ بولنا۔ تکبیر کرنا۔ (زَهَانٌ) زَهْوًا
 فُلَانًا: تجارت کرنا۔ الكِبْرُ فُلَانًا: خود پسند
 بنانا۔ زَهَا السَّوْجُ: روشن کرنا۔
 الرِّيحُ النَّبَاتُ: تر شدہ گھاس میں ہوا
 کی وجہ سے لہنا ہونا۔ الْأَمْوَاجُ
 الشَّيْفِيَّةُ: موجوں کا کشتی کو بلند کرنا۔ فُلَانٌ
 بِالسَّيْفِ: تلوار چمکانا۔ فُلَانًا بِالْعَصَا:
 لاشھی سے مارنا۔ الْمَسْرَابُ الْأَكْمَةُ:
 بڑھاہا: نمایاں کرنا۔ (يَزْهُوها مستعمل نہیں
 ہے۔)
 زَهِي: الزَّجْلُ بَكَدًا: تکبیر کرنا۔
 أَزْهِي: تکبیر کرنا۔ التَّخَلُّ: لہنا ہونا
 البَشْرُ: رنگ اختیار کرنا۔
 زَهِي: البَشْرُ: رنگ اختیار کرنا۔ زَهَيْتِ
 الْمَرْوَجَةَ الرِّيحُ: بچھے کا ہوا کو حرکت میں لانا۔
 إِذْهَى: الزَّجْلُ: مغرور بنانا۔ تجارت سے
 دیکھنا۔ هَ عَلَى الْأَمْرِ: مجبور کرنا۔ ہ و بہ
 تجارت کرنا۔
 الزَّهَاءُ: مہ۔ مقدار۔ تقریباً۔ کہا جاتا ہے
 ”عِنْدِي زَهَاءٌ خَمْسِيْنَ دِرْهَمًا“ میرے پاس
 تقریباً پچاس درہم ہیں۔

اللہ العلیل" اللہ تعالیٰ علیلوں کو دور کریں۔
 و"أَزْحَتْ عَلَيْهِ فَمِنَّا اسْتِخَاجُ إِلَيْهِ" یعنی میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔
 انزاح: ناکل ہونا۔
 زَادَ يُزِدُ زَوْدًا: توشہ لینا۔
 أَزَادَهُو زَوْدَةً: توشہ دینا۔
 إِزَادَادُو اسْتِزَادُوا: توشہ مانگنا۔
 تَزَوَّدَ: توشہ لینا۔ کہا جاتا ہے "تَزَوَّدَ مِنَ الْأَمِيرِ كِتَابًا إِلَى عَامِلِهِ" وہ امیر کا خط اس کے عامل کے پاس لے گیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے و "تَزَوَّدَ مِنْ عِلْمِهِ بَيْنَ الْأَذْنِيَّةِ" یعنی میری جانب سے اس کو دونوں کانوں کے درمیان نیزے کا زخم لگا۔

الزَّاد: توشہ۔ زارہ: حج آزودہ و آزواد۔
 الجَزُودُ والمَزَادُ والمَزَادَةُ: توشہ دان۔ حج مَزَاوِدُ: مُفَاضَةُ المَزَاوِدُ: توشہ دان کا پتلا کھچا۔ یہ سخت کے لیے ضرب المثل ہے۔ وَهُمْ مِلَاءُ المَزَاوِدِ: وہ لوگ انصاف ہیں۔
 زَاوَةٌ: زَوْزَةٌ: زِيَارَةٌ وَمَزَارًا وَزُورًا وَزُورًا وَوَاوَةً وَزَاوَةً: ملاقات کیلئے جانا۔ صفت (زائر) حج وَالزُّورُونَ وَزُورُوا وَوَاوُوا مَوْنُثَ زَاوِيَةِ جِزْرٍ وَزُورُوا وَوَاوُوا: حج گھوڑے کے ہونٹوں میں زیار باندھنا۔ (دیکھئے لفظن پارا)
 زُورٌ: يَزُورُ زُورًا: حج ہونا۔ ٹیڑھے سینہ والا ہوتا۔

زُورٌ: جھوٹ کو آراستہ کرنا۔ الكَلَامُ: باطل ٹھہرانا۔ جھوٹ کی طرف نسبت کرنا۔
 الشَّهَادَةُ: شہادت کو باطل قرار دینا۔
 نَفْسُهُ: جھوٹ و بہتان کی علامت لگانا۔
 عَلَيْهِ: کسی پر جھوٹ باندھنا۔ عَنَهُ: کسی سے پھر جانا۔ فَلَانًا عَلَيَّ نَفْسِي: کسی پر حسرت لگانا۔ الشَّنَى: درست کرنا، سیدھا کرنا۔ الشَّنَى لِنَفْسِي: کسی چیز کو پسند کر کے اپنے لیے خاص کر لینا۔ الزَّائِرُ: عزت و اکرام کرنا۔ تم کہتے ہو "زُرْتُهُمْ فَزُورُونِي" میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور انہوں نے میری تعظیم کی۔ الْقَوْمُ صَاحِبُهُمْ: بھلائی کرنا۔

آزَاوَةٌ: زیارت کرنے پر براگیشہ کرنا۔ الشَّنَى: چلانا۔
 إِزْدَاوَةٌ: ملاقات کے لیے جانا۔
 تَزَوَّرٌ: جھوٹ بولنا۔ الشَّنَى: کسی چیز کو پسند کر کے اپنے لیے خاص کر لینا۔
 تَزَاوَرٌ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی زیارت کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُمْ يَتَزَاوَرُونَ وَيَتَشَاوَرُونَ" وہ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں (اور) وَزُورُوا (وَاوُوا) عَنَهُ: انحراف کرنا۔ اسْتِزَادَةُ: ملاقات کے لیے کہنا۔

الزُّورُ: مہ۔ سینہ کے درمیان کابلانی حصہ یا سینہ کی ہڈیوں کے ملنے کی جگہ اور اسی سے ہے "فَرَسٌ عَرَبِيٌّ الزُّورُ" چوڑے سینہ والا گھوڑا۔ اور کہا جاتا ہے "أَنْفَى زُورَةٌ" یعنی اس نے اقامت کر لی۔ الزُّورُ: ہتھ ارادہ عقل۔ خیال جو خواب میں آئے۔ زیارت کرنے والا (واحد شتہ: جمع: مُدْرِكٌ مَوْنُثٌ سب کیلئے) کہا جاتا ہے زَجَلٌ زُورٌ إِمْرَأَةٌ زُورٌ وَرِحَالٌ زُورٌ وَيَسَاءَةُ زُورٌ۔ سردار۔ رئیس۔ درخت خرمائی شاخ کہ جس میں پتے ابھی نہ لگے ہوں۔ پتھر جو کٹواں کھودتے وقت نکل آئے اور اس کو تُوْرُنہ کہیں اور چھوڑ دیں۔

الزُّورُ: عقل۔ جھوٹ۔ باطل۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ قوت۔ کہا جاتا ہے "مَالَةٌ زُورٌ وَلَا صَبُورٌ" نہ تو اس کے اندر قوت ہے اور نہ کوئی رائے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ رائے۔ سردار۔ رئیس۔ کھانے کی لذت۔ کپڑے کی نرمی و صفائی۔ راگ و گانے کی مجلس۔ یسودیوں و نصرانیوں کی عیدیں۔

الزُّورُ: مہ۔ کچی۔ سینہ کے بلانی حصہ کی کچی۔ الزُّورُ: ٹکڑا۔ کٹاں۔ باریک تانت۔ عادت۔ عورتوں سے بغیر ارادہ ویدی کے بات چیت کرنے کو پسند کرنے والا۔ حج آزواد اور زيار و زيارَةٌ: الزيارَةُ: ملاقات کی نیت۔ کٹاں کا ٹکڑا۔ الزيارُ: دو لکڑیاں جن سے سلوتری گھوڑے کے ہونٹوں کو دیا کرتا ہوں۔ اس سے فعل کا اشتقاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں زَيْرُ الفَرَسِ (الزُّورِ) ہر دو چیز جس سے دوسری چیز کی درستی ہو۔ سینہ بند اور تنگ کے درمیان کی رستی۔

ح آزوڑہ۔

الزُّورُ: غلبناک۔

الزَّارَةُ: اونٹوں کا گلہ۔ بانس، زکل وغیرہ کی جھاڑی جس میں پانی بھی ہو (اور) الزَّارِوَةُ: الزَّارِوَةُ: الزَّارِوَةُ: پانا۔ زَاوَرَةُ الْقَطَا: قَطَا پرندہ کا وہ حصہ جس میں وہ اپنے بچوں کیلئے پانی لے جاتے۔

الزُّورُ: سخت حال۔ سخت سفر کے لیے تیار کیا ہوا اونٹ (اور) الزُّورِوُ: الزُّورِوُ: سردار قوم۔ رئیس قوم۔

الزُّورَةُ: زار کا اسم مرہ۔ دوری۔ اونٹنی جو شدت و مصلابت کی وجہ سے تنگیوں سے دیکھے۔ الأزورُ: ٹیڑھے سینے والا۔ باریک وسط سینہ والا۔ مائل ہونے والا۔ ترجمی نظر سے دیکھنے والا۔ مَوْنُثُ زُورَاءَ: حج زُور۔ کہا جاتا ہے "فَرَسٌ عَرَبِيٌّ مَوْنُثٌ الْحَقِي زُورًا" جن کے مَوْنُثُ سے بٹی ہوئی قوم۔

الزُّورَاءُ: گمراہ کنواں۔ کمان۔ پالہ۔ چاندنی کا برتن۔ شہر بغداد۔ جلد بندار۔ فَلَاحَةُ زُورَاءَ: دور دراز بیابان۔ کَلِمَةُ زُورَاءَ: گھنیا بات۔ وَجَارَةُ زُورَاءَ: ٹیڑھا ستارہ۔

الزُّورَاءُ: بہت ملاقات کرنے والا۔ المزار: مہ۔ ملاقات۔ زیارت کرنے کی جگہ۔ حج مزارات۔

الزُّورُوقُ: ڈوگی۔ چھوٹی کشتی۔ الزُّورُوشُ: کینہ غلام۔ الأزورُوشُ: شکوہ و مفرور۔ زَوْرَطٌ: بڑے نئے پانا۔

زَاعَ يُزَوِّغُ زُورَعًا: فَلَانًا: روکنا۔ تم گے دھکیلنا۔ الذَّابَّةُ: جانور کو تیر جانے کے لیے لگام بلانا۔ الشَّنَى: مَوْنُثًا لَهُ مِنَ البَطِيخَةِ (زُورَعَةٌ) خربوزے کی قاش اُتار کر (اور) وَتَزَوِّغُ اللَّحْمَ: گوشت کا ٹپے سے اُتر جانا۔ زُورَعٌ: الإبلُ: متفرق کرنا۔ پرانندہ کرنا۔ الزُّورَعَةُ: لوگوں کی ایک جماعت۔ مِنَ البَطِيخَةِ وَنَحْوِهَا: خربوزہ وغیرہ کی پھانک قاش۔ مِنَ النَّبْتِ: گھاس کا وہ حصہ جو خشک ہونے لگے۔

الزاعة۔ پولیس کی جماعت (جمع ہے مثل باعة وسادة کے)
الزوق والزوج۔ کڑی۔

زاع يزوق زوعا۔ الشئ: کسی چیز کو جگانا
_____ التافة: اوستی کو مٹانے کے لیے
زوعا وزوعانا، مائل ہوتا۔ علم کرنا
البيض: ننگہ میں خلل ہونا۔
ازاعه ازاغة جگانا۔
الزاع۔ کو۔

زافت تزوف زوفاً۔ الحصاة: کبوتر کا زود
دم کو پھیلنا کر زمین پر کھینچنا
الضواہ: پرندہ کا نصاب میں آنا
الزجل: مرد کا ہاتھ پاؤں چھوڑ کر عشاء ڈھیلے کر
کے چلنا
_____ الماء: پانی کا بلبلے والا ہونا
_____ وتزوف: اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرنے کے
لیے ورزش کی مشق کرنا۔

الزوف: طے میں ڈھیلے
الزوفی والزوفاء: ایک دوا کا نام۔ موت
(زوف) جلدی کی موت۔
زوق۔ الكلام: آراستہ کرنا۔ مزین کرنا
_____ البیت: نقش و نگار کرنا
_____ اللبذم: پارہ کا طمع کرنا۔

الزواق: لڑکی کی نسبت۔
الزوفة: گھروں میں نقش و نگار کرنے والے۔
الزوق والزوق: پارہ۔
زال يزوق زوقا وزوقا۔ موٹروں کو
حکرت دینا اور ٹانگوں کو کشادہ کرنا۔ کھیر سے چلنا۔
تزواک تزواکھا۔ شرم کرنا۔
الزوک: کوئی کی چال۔

زال يزوق زولا وزولا وزولانا وزولوا
ہے "زال عنہ منکک" اس کی سلطنت جاتی
ری۔ جدا ہونا۔ ہلاک ہونا
_____ زولا: حرکت
کرنا اور اسی سے ہے "ازی النجوم تزول ولا
تغیب" یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ستارے
_____ حرکت کر رہے ہیں اور غائب نہیں ہوتے۔ و۔
"فلان يزول فی القاص" فلاں لوگوں میں بہت
چلا پھرتا ہے۔

زال (ن) زولا وزولا وزولانا وزولانا۔
الشفس: آفتاب کا چلنا۔ الخيل بزواياها:
لے کر اٹھنا اور اسی سے ہے "زبل بنعشبه" یعنی
اس کی غص اٹھائی گئی۔ کہا جاتا ہے "زال زابل
الطل" یعنی دوپہر ہو گئی۔ و "زال اوزبل زولنه
وزواله" ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی جانب
بھٹ گئی۔

ازالو زولوا وازدالة۔ ہٹانا۔ کہا جاتا ہے "ازال
الله زواله" یعنی اللہ اسے ہلاک کرے۔ زول
الشئ: کسی چیز کو لانا۔
زاوله: کو شش کرنا۔ تصد کرنا۔ تلاش کرنا۔
تزول: الشئ: کسی چیز کو لانا
_____ الغلام:
لڑکے کا اسمائی زبرک و ظریف ہونا۔
تزاول: القوم: باہم کو شش کرنا۔

الزوال: عنہ: جدا ہونا۔
الزوال: لا۔ الشئ: زائل ہونا۔
الزول: مع۔ تعجب۔ عجب۔ کہا جاتا ہے "مسیر
زول" یعنی عجب سیر و "شهوة زولة" عجب
سرور۔ الزول: وجود انسانی۔ فیاض مرد سبک و
ظریف وزیرک۔ ہمدرد۔ بلاج۔ ازوال۔

الزوال: مع۔ سورج کا چلنا۔ کہتے ہیں الساعة
الرابعة زواله۔
الزابل: قا۔ کہا جاتا ہے "ليل زابل النجوم"
یعنی لمبی رات۔

الزوال: بہت حرکت کرنے والا۔
الزائلة: الزابل کامؤنٹ۔ زندہ یا متحرک چیز۔ ج
زوايل۔ الزوايل: ستارے۔ مور تیں۔ شکار۔
الزویل: مع۔ حرکت۔ جانب۔
الجزولة: دھوپ گزری۔ جزاویل۔
زائم يزوم زوعا۔ الزجل: مرنا۔

الزام: ہرجے کی چوتھائی۔ زام من النهار یون کی
چوتھائی۔ اذان من النهار: دن کا نصف حصہ۔
الزامة: جماعت۔ گروہ۔ ج زاعات۔
الزوم: عند الصائمة: عوام کے نزدیک کسی چیز کا
شیرہ یا نیم زام اور اس کے لیے فصیح لفظ النسخ
ہے۔ وہابی جس سے کپڑا ہموایا جائے اور اس کیلئے
فصیح لفظ الغسالہ ہے۔
الزوم: ہرجے کا گروہ۔

زومل الايل: اونٹوں کو بانگنا۔

الزوملة: مع۔ گدھے مع یوحیوں کے۔ کہا جاتا
ہے "هو این زوملہا" وہ اس کا جاننے والا ہے۔
الزوان: بد بھنی۔

الزون والزون والزون: پستہ۔ الزون: بہت
یامندر۔

الزونة: زنت۔ سمجھدار عورت۔

الزوان والزون والزون: دیکھے الزوان
بالهخرة۔

زوی يزوی زووا وزوا۔ الشئ: جدا کرنا۔ یکسو
کرنا۔ روکنا۔ جمع کرنا۔ جمع کرنا
_____ المعال
وغیرہ: اکھا کرنا عندہ السیر: راز کو پوشیدہ رکھنا
_____ عنہ حقہ: کسی کا حق روک لینا۔

الدهور القوم: زمانہ کا قوم کو تباہ و برباد کرنا۔

زوی و تزوی و تزوی: گوشہ نشین ہونا۔
تزوی و تزوی: سکڑنا۔ زوی الكلام: دل
میں سوچنا۔ تزوی القوم: بغضہم الی بغض:
سمٹنا۔ ایک دوسرے کے قریب ہونا۔

الزوانة: من البیت: گوشہ۔ ج زوايا۔
والزوانة: عند الحجارین والنجارین
وغیرہم: دو مستقیم ضلعوں کا ایک آلہ کہ جس
کے ضلعوں کا ایک ایک سر باہم اس طرح جڑا ہوا
ہوتا ہے کہ ان کا درمیانی گوشہ زاویہ قائمہ بن
جاتا ہے۔

تزویب: لخدہ: گوشہ کے لوٹنے سے بنا۔

الزویب: ہوا کی تیزی۔

زجل (زیت و ازب) ہمدرد و لیر مرد۔

الازیب: شاولی۔ پست قدم۔ قریب قریب
قدم رکھنے والا۔ کینہ۔ مشہور لاینا۔ جسی۔ امرید۔
بلا مصیبت۔ دشمنی۔ بہت پائی۔ شاولی۔ جسی۔
جھولی ہوا۔

الازیب: شدید۔ جھیل۔

الزویق: پارہ۔

زات یزیت زتقا وزیت۔ الطعام: کھانے
میں زیتون کا تیل و زانا۔ الشئ: کسی چیز پر
زیتون کا تیل لگانا۔ القوم: لوگوں کو زیتون
کا تیل کھانا تو شہ دینا۔

ازات ازاتہ: بہت تیل والا ہونا۔

زینت دینا۔

تَزَيَّنَ تَزْيِينًا وَأَزْيَانًا وَأَزْدَانًا إِذْيَانًا
وَأَزْيَانًا إِذْيَانًا وَأَزْيَانًا إِذْيَانًا۔ آراستہ ہوتا۔

الزَّائِنُ - فَا - إِمْرَأَةٌ زَائِنٌ : آراستہ عورت۔

الزَّيْنُ - م - آراستگی اَزْيَانُ - الزَّيْنُ : ایک
درخت کا نام جس سے تیر بناتے ہیں۔ زَيْنٌ
الذَّيْبُ : مرغ کی کلتی۔

الزَّائِنَةُ - ب - بعضی۔

الزَّيْنَةُ - آراستگی جس سے زینت کی جائے۔
أَمْرَاضُ الزَّيْنَةِ عِنْدَ الْأَطْبَاءِ : بال یا کمال یا ناخن
کے امراض۔

الزَّيْنَانُ - خوبصورت۔ کہا جاتا ہے "قَمَرُ زَيْنَانَ"

الزَّيْفَلُ - دونوں رانوں کے درمیان کی دوری۔

الْأَزْفَلُ - دونوں رانوں کے درمیان فاصلہ
والا - زَجْلٌ إِمْزِيلٌ وَمُزْبَالٌ اخوش طبع۔ زیرک۔

زَامٌ يَزِينُهُ وَيَزَامُ زَيْنًا. يَفْلَانٌ فَاسِكْنَةُ :
ایک کلمہ بول کر خاموش کر دینا۔

تَزَيَّنَتْ - المَخِيلُ وَغَيْرُهَا : گھوڑے وغیرہ کا
پرانگنہ ہوتا۔ الخَمُّ : گوشت کا کٹڑے
کٹڑے ہوتا۔ آپس میں گتھا ہوا ہوتا۔

الزَّيْنَةُ - گوشت وغیرہ کا کٹڑا۔ جَزِيمٌ

زَانَةٌ يَزِينُهُ زَيْنًا - زینت دینا۔ الشَّيْءُ :
خوبصورت بنانا۔ آراستہ کرنا۔

زَيْنَةُ تَزْيِينًا وَأَزَانَةُ إِزَانَةٌ وَأَزْيَانَةُ إِزْيَانًا۔

خوبصورت جانے۔

الزَّيْنَانُ - ہر وہ چیز جس سے زینت کی جائے۔

المُزَيْنُ - فَا - نَالِي - (مولد)

زَيْنَاهُ تَزْيِينًا - پوشاک پہنانا۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ

زَائِيَةٌ فَزَيْنُهَا" یعنی اس کو حرف زاب سے پڑھو۔


تَزْيَانًا - آراستہ ہونا۔ بَنِي الْقَوْمِ : قوم کا
لباس پہننا۔

الزَّيْنِي - بَيْت - شِكْل - پوشش۔ کہا جاتا ہے

"أَقْبَلُ بَنِي الْعَرَبِ" وہ عرب کے لباس میں آیا

و "جَاءَ نَابِزِي غَرِيبٌ" وہ ہمارے پاس عجیب

لباس میں آیا۔ جَزَاءُ



السین۔ فصل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی کے لیے خاص کر دیتا ہے۔

سَأْتُهُ (ف) سَأْتًا۔ گلا گھوٹنا۔ السقاء: مٹک کو کشادہ کرنا۔ وَسَيْبٌ (س) سَأَبًا) مِنْ السَّوَابِ: آسودہ و سیراب ہونا۔

السَّابِ۔ مہ۔ بڑی مٹک۔ ج سَوُوبٌ۔ السُّوَبَانُ۔ مال کا بہترین قسم۔ السَّابِ بڑی مٹک۔ بہت پانی پینے والا۔ سَأْتُهُ (ف) سَأْتًا۔ گلا گھوٹنا۔ گلا گھوٹ کر مار ڈالنا۔

السَّاتِ۔ گلے کی ایک جانب۔ سَأْدَةٌ (ف) سَأْدًا وَسَأْدًا۔ گلا گھوٹنا۔ شہید۔ کھاری پانی کے پینے سے بیمار ہونا۔ صفت (مشفؤد)

سَعِدٌ (س) سَأْدًا۔ پینا۔ الجَحْضُ: رُحْمٌ لُوثٌ کر مٹا۔ صفت (سَعِيدٌ)

أَسَاءَ إِسَاءًا۔ ساری رات چلنا۔ کہتے ہیں "أَسَعَدَ يَوْمَهُ إِسْعَادًا مِنْ أَسَاءٍ وَ لَيْلَةً إِسَاءًا" جو شخص ساری رات چلتا رہا اس نے اپنے دن کو کامیاب بنایا۔

السُّوَادُ۔ کھاری پانی پینے کی وجہ سے بیماری۔ السُّوْدَةُ۔ بقیہ جوانی۔

السَّادُ۔ تیل یا شہد کی مٹک۔ سَأَرٌ (ف) سَأَرًا وَأَسَارًا۔ الشَّارِبُ فِي الْإِنَاءِ: کچھ باقی چھوڑنا۔ صفت (سَأَرٌ) اور کہا جاتا ہے "أَسَارٌ الْحَاسِبُ لِي جَسَابِهِ" حساب لگانے والے نے حساب کو پوری طرح سے نہیں کیا۔

سَبْرٌ (س) سَأَرًا۔ الشُّي: باقی رہنا۔ تَسَارٌ۔ التَّيْبُدُ: جمونا نیندینا۔

السُّوْرُ۔ جمونا پانی وغیرہ۔ بقیہ۔ ج أَسَارٌ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سُورٌ سُورٌ" وہ شریک ہے۔

السُّوْرَةُ۔ بقیہ جوانی۔ لِقِنُ الصَّالِ: عمدہ مال۔ ج سُورٌ۔

السَّائِرُ۔ فَا مِنْ الشَّيْءِ بَاقِيَةٌ۔ سَأَسًا سَأَسًا۔ بِالْحَمَارِ: گلہ سے کو روکنے کیلئے ڈاٹھیا پینے یا چلنے کیلئے آواز دینا۔ تَسَأَسَاتِ الْأَمْوَالِ: مختلف ہونا۔

سَأَلْتُ (ف) سَأَلًا وَسَأَلْتُ (س) سَأَلًا يَدُهُ: ناخن کے ارد گرد پھٹنا۔ ہاتھ کی صفت (سَعِيْقَةٌ) (سَعِيْفٌ وَ السَّافُ) لَيْفُ النَّخْلِ: پھٹنا۔ پراگندہ ہونا۔ چھلنا۔

السَّافُ۔ کھجور کی شاخ۔ دم کے بال۔ السَّائِقَةُ۔ ریت کے تودے کے نیچے کی باریک ریت۔ ج سَوَائِفٌ۔

سَأَلٌ (ف) سَأَلًا وَسَأَلَةً وَسَأَلَةً وَمَسْأَلَةً وَتَسْأَلًا۔ طلب کرنا۔ مانگنا۔ درخواست کرنا۔ اس کا

تعدیہ دو مفعول کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے "سَأَلْتُ اللّٰهَ نِعْمَةً" اور جب استعجاب کے معنی میں ہو تو مفعول اول کی طرف بتسمہ اور مفعول ثانی کی طرف عن سے تعدی ہوتا ہے جیسے سَأَلْتُهُ عَنْ خَاصِيَةٍ" اور کبھی حمزہ کی تخفیف ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے "سَأَلَ تَسْأَلٌ سَلٌ" مثل خاف يخاف

خَفٌ کے اور اسم مفعول "مَسْئُولٌ" مانند خُوف کے۔ سَاءَةٌ لُهُ وَسَائِلُهُ مُسَاءَةٌ لُهُ وَ مُسَائِلَةٌ وَسَاءَةٌ لِي عَنْهُ: بمعنی سال۔

أَسْأَلُهُ سُؤْلَهُ وَسُؤْلَتُهُ وَمُسْأَلَتُهُ: حاجت پوری کرنا۔ تَسْأَلٌ وَتَسْوَلٌ: مانگنا۔

تَسْأَلٌ وَتَسْوَلٌ: مانگنا۔

تَسْأَلٌ وَتَسْوَلٌ وَتَسْأُولٌ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے پوچھنا۔

السُّؤْلُ وَالسُّؤْلُ وَالسُّؤْلَةُ وَالسُّؤْلَةُ: درخواست۔ التَّحِيَا۔

السَّأَلُ وَالسُّؤْلَةُ وَالسُّؤُولُ: بہت سوال کرنے والا۔

السَّائِلُ: فَا۔ مانگنے والا۔ ج سَائِلُونَ وَسُؤْلٌ وَسُؤَالٌ وَمَسْأَلَةٌ۔

المَسْئَلَةُ: حاجت۔ مطلب۔ ج مَسَائِلُ الْمَسْئُولِيَّةِ: ذمہ داری۔

سَعِمٌ (س) سَأَمَةٌ وَسَأَمًا وَسَأَمَةً وَسَأَمًا وَسَأَمَةً: الشَّقِ وَوَيْدُهُ: کسی چیز سے ملول ہونا۔ آتا جاتا۔ صفت (سَوْدُمٌ)

أَسَاءَهُ إِسَاءًا لَوْلَا كَرَاهِيَتُهُ) سَأَانَ (س) سَأَرًا وَوَرَا سَأَرًا: الشَّقِ: کسی چیز کی نیت کرنا۔ قصد کرنا۔ الزَّحْلُ: کسی کو گلین کرنا۔ السُّؤْبُ: کپڑے کو کھینچ کر پھاڑنا۔ يَنْهَهُمُ: لوگوں میں فساد ڈالنا۔

السَّوُءُ۔ مہ۔ وطن۔ وہ جہت جہاں کارا وہ کیا جائے اور کہا جاتا ہے "هُوَ يَبْعِدُ السَّوُءَ" وہ بڑی بہت دور لے جاتا ہے۔

سَبَّأٌ (ن) سَبَّأٌ وَسَبَّأٌ: سخت گل رہنا۔ مقعد میں نیزہ مارنا (سَبَّأٌ) الخَبْلُ: رستی کو کاٹنا۔ الْفَرْصُ: گھوڑے کو زخمی کرنا۔ کو نہیں کاٹنا۔

سَبَّأٌ: بہت گل رہنا۔ الْأَسْبَابُ: اسباب پانا۔ لِلْمَاءِ مَجْزِيٌّ: پانی کے لیے تلی درست کرنا۔ الْأَمْرُ: سبب بنتا۔

سَبَّأٌ مَسَابَةٌ وَبَسَابًا: گل رہنا۔ تَسَبَّبَ: اسباب ڈھونڈنا۔ بِه الْيَبِ: وسیلہ بنتا۔ بِالْأَمْرِ: سبب ہونا۔

سَبَّأٌ مَسَابَةٌ وَبَسَابًا: گل رہنا۔ تَسَبَّبَ: اسباب ڈھونڈنا۔ بِه الْيَبِ: وسیلہ بنتا۔ بِالْأَمْرِ: سبب ہونا۔

سَبَّأٌ مَسَابَةٌ وَبَسَابًا: گل رہنا۔ تَسَبَّبَ: اسباب ڈھونڈنا۔ بِه الْيَبِ: وسیلہ بنتا۔ بِالْأَمْرِ: سبب ہونا۔

سَبَّأٌ مَسَابَةٌ وَبَسَابًا: گل رہنا۔ تَسَبَّبَ: اسباب ڈھونڈنا۔ بِه الْيَبِ: وسیلہ بنتا۔ بِالْأَمْرِ: سبب ہونا۔

سَبَّأٌ مَسَابَةٌ وَبَسَابًا: گل رہنا۔ تَسَبَّبَ: اسباب ڈھونڈنا۔ بِه الْيَبِ: وسیلہ بنتا۔ بِالْأَمْرِ: سبب ہونا۔

سَبَّأٌ مَسَابَةٌ وَبَسَابًا: گل رہنا۔ تَسَبَّبَ: اسباب ڈھونڈنا۔ بِه الْيَبِ: وسیلہ بنتا۔ بِالْأَمْرِ: سبب ہونا۔

نَسَبًا - الزَّجْلَانِ: باہم قطع تعلق کرنا اور گال گلوچ کرنا۔

إِسْتَبَّ - الْقَوْمُ: باہم گال گلوچ کرنا۔

إِسْتَبَّ لَهُ: گال کیلئے پیش کرنا۔

إِسْتَبَّ لَهُ الْأَمْرُ: کام کا درست ہونا۔

السَّبُّ وَالسَّبِيَّةُ وَالْمَسْبُ وَالْمَسْبِيَّةُ -

ہست گال دینے والا - السَّبُّ: بیخ مشبُوب: رستی۔

عاصم - کھوئی - گال کا پارک کھڑا پرورد۔

السَّبِيَّةُ - مِنَ الْحِرِّ وَالْبُرْدِ أَوْ الدَّهْرِ: عرصہ

مقتد۔

السَّبِيَّةُ - انْحَثتْ شَارَاتٌ عِنْدَ

الْمَوْلِدَيْنِ: ہفتہ۔

السَّبِيَّةُ - جس کو لوگ ہست گالی دیں - عار ہے

عزتی۔

السَّبِيَّةُ - رستی - ذریعہ - راستہ - کہا جاتا ہے

"مَالِي إِلَيْهِ سَبَبٌ" میرے لیے اس کی طرف

کوئی راستہ نہیں۔ و "قَطَعَ اللَّهُ بِهِ السَّبَبُ"

اللہ نے اس کی زندگی ختم کر دی۔ دوستی - رشتہ

داری - فِی الْفُرُوضِ: دو حرف متحرک یا ایک

متحرک اور ایک ساکن - جِ اسْتَبَابَ - اسْتَبَابَ

السَّعَاءُ: آسمان کے اطراف یا آسمان میں چڑھنے

کی جگہ اور کہا جاتا ہے "تَعَاظَى الْأَسْتَبَابُ"

اس نے امورِ معیشت کے اسباب حاصل کئے۔ و

"تَفَقَّطَتْ بِهِمُ الْأَسْتَبَابُ" ان کی دوستیاں اور

تعلقات ختم ہو گئے۔

السَّبِيْبُ وَالسَّبِيْبِيَّةُ - بالوں کا گچھا۔

_____ مِنَ الْقَوْمِ: گھوڑے کے دم کے بال۔

گھوڑی کی پیشانی کے بال - اہمال - جِ سَبَابِيبُ: کہا

جاتا ہے "لَقَدْ عَفَّذُوا مَسَابِيْبَ خَيْلِهِمْ" انہوں

نے اپنے گھوڑوں کے دم کے بالوں میں گرہ لگائی۔

السَّبِيْبِيَّةُ: کتان کا پارک کھڑا۔

السَّبَابُ - ہست گال دینے والا - مؤنث سَبَابَةٌ -

الْأَسْبُوْبِيَّةُ - باعث گال - کہا جاتا ہے "بَيَّنْتُهُمْ

أَسْبُوْبِيَّةً يَتَسَابَوْنَ بِهَا" ان کے درمیان گال کا

سبب ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو گال

دیتے ہیں۔

السَّبَابَةُ وَالْمَسْبِيَّةُ - انْحَثتْ شَارَاتٌ -

سَبَا (ف) مَسْبَاً وَ مَسْبِيَّةً وَ مَسْبِيَّةً - الْعَصْرُ:

شراب کو پینے کیلئے خریدنا۔ الْجِلْدُ: کھال اتارنا

_____ الْجِلْدُ بِالنَّارِ: کھال کو آگ میں جلانا۔

_____ الزَّجْلُ: کوزے مارنا۔ مصافحہ کرنا۔

_____ النَّازُ الْجِلْدُ: آگ کا کھال کو جھلس دینا۔

أَسْبَأَ _____ لِأَمْرِ اللَّهِ: حکم الہی کے لیے جھک

جانا۔

_____ عَلَى الشَّمْرِ: مطع ہونا۔

إِسْتَبَأَ الْجِلْدُ: کھال کا اتارنا۔ چھل جانا۔

إِسْتَبَأَ اسْتِبَاءً - الخمر: شراب کو پینے کے

لئے خریدنا۔

_____ السَّبَاوِ السَّبِيَّةُ: شراب۔

_____ السَّبَا: سبے فروش۔

_____ السَّبَاةُ: دور کا سفر۔

_____ السَّبِيَّةُ مِنَ الْحَيَّةِ: سانپ کی کینچلی۔

_____ السَّبِيَّةُ: ہماڑی راستہ - راستہ۔

سَبَتَ (ن ض) مَسْبَتًا: ہفتہ کے دن میں داخل

ہونا۔ سبت منانا۔ آرام لینا _____ الشَّيْءُ كَيْ يَجُزَّكَو

كَانَا _____ الزَّوْاسِ: سر موڑنا _____ الزَّجْلُ:

حیران ہونا _____ الشَّعْرُ: بال لٹکانا _____

عَنْقَه: گردن پر مارنا۔

_____ سَبَتَ: الزَّجْلُ: نیند کا آجانا۔

_____ أَسْبَتَ: ہفتہ کے دن میں داخل ہونا۔

_____ اسْتَسَبَتَ: الشَّيْءُ: کسی چیز کا راز ہونا۔

_____ الْجِلْدُ: کھال کا نرم ہونا _____ الوَجْهُ:

چہرہ کا رہا ہونا۔

_____ اسْتَسَبَتَ: التَّيْهُؤُ: بیوہوں کا ہفتہ کون منانا۔

_____ السَّبَتُ: مہ - سبچہ - شنبہ - جِ اسْبَتُ و

سَبُوْت - السَّبَتُ: ہست سونے والا - عمدہ گھوڑا۔

_____ دِر لِرَاك - جِالَاك مِرود - زَمَان - ہفتہ - (_____

السَّبِيَّةُ) زمانہ کا ایک عرصہ۔

_____ السَّبَتُ: پکائی ہوئی کھال - رنگی یا دباغت دی

ہوئی کھال۔

_____ السَّبَتُ وَالْمَسْبَتُ: مٹھی لی ماٹرا ایک پرورد۔

_____ السَّبَاتُ: نیند یا اوگھ - زَمَان - جِالَاك مِرود۔

_____ اِبْتَسَابَاتُ: دن رات (السَّبَابَاتُ) ایک جسم کی

سمندری مچھلی۔

_____ السَّبَاتَانُ: بیوقوف۔

_____ السَّبَاتَاءُ: بیابان۔

_____ السَّبَتِيُّ: دلیر پیش قدمی کرنے والا - جیتا - ج

سَبَاتِيَّةٌ وَ سَبَاتِيٌّ: مؤنث سَبَاتَاءُ - السَّبَاتَاءُ:

زبان و راز عورت۔

_____ الْمَسْبِيَّةُ: فاقہ - وہ شخص جو مرض وغیرہ کی وجہ

سے نہ حرکت کرے نہ آنکھیں کھولے۔

_____ الْمَسْبُوْت - مہم - میت یا بیہوش سر منڈا ہوا۔

_____ تَسْبِيْحٌ: سیاہ کپیل اوڑھنا۔

_____ السَّبِيْحَةُ: کالا کپیل - جِ مَسْبِيْحٌ: بغیر آستین کا

کرتا۔

_____ السَّبِيْحُ: سیاہ مہرے۔

_____ السَّبِيْحُ: کالا کپیل بیچنے والا۔

_____ نُوْبٌ (مَسْبِيْحٌ) چوڑا کپڑا۔

_____ سَبِيْحٌ (ف) سَبِيْحًا: الزَّجْلُ: اپنی معاش کیلئے

تصرف کرنا۔ سونا اور آرام لینا۔ دور تک نکل جانا

_____ عَنِ الْأَمْرِ: فارغ ہونا۔ فِی الْكَلَامِ:

ہست بولنا۔ _____ فِی الْأَرْضِ: کھودنا _____

الْقَوْمُ: پھر ناورد زمین میں پھیلنا۔ _____ مَسْبَحًا

سَبَاخَةً: فِی الْمَاءِ وَ بِالْمَاءِ) تیرنا اور بطور

استعارہ کے گھوڑے کی رفتار اور سیرے کی

چال کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے (_____

سَبِيْحًا) سَبِيْحًا) سبحان اللہ کرنا۔

_____ سَبِيْحٌ تَسْبِيْحًا: نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ کرنا

_____ اللَّهُ وَ إِلَهُ: خدا کی پائی بیان کرنا۔

_____ اسْتَبِيْحُهُ: تیرنا۔

_____ السَّبِيْحَةُ: سَبِيْحٌ كَأَسْمِ مِرود - کھال کے کپڑے۔

_____ السَّبِيْحَةُ: دعا - تم کہتے ہو "فَصَبِيْحَتُ

سَبِيْحَتِي" میں نے اپنی دعا پوری کر لی۔ نفل نماز۔

_____ تَسْبِيْحٌ: سَبِيْحَةُ اللَّهِ: اللہ تعالیٰ کا جلال - جِ سَبِيْحٌ و

سَبِيْحَاتُ وَ سَبِيْحَاتُ وَ جِبَدُ اللَّهِ: اللہ تعالیٰ کے

انوار یا وہ دلائل عظمت جن سے باری تعالیٰ کی

تقدیر کی جائے۔ السَّبِيْحَةُ: بڑوئی کا کھڑا۔

_____ سَبِيْحَانُ: مہم - کہا جاتا ہے "سَبِيْحَانُ اللَّهُ"

یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عیوب و نقائص سے پائی بیان

کرتا ہوں۔ و "سَبِيْحَانُ مِنْ كَذْبًا" موعج تعجب

کیلئے اور یہ اضافت کے معنی میں ہے۔ یعنی

"سَبِيْحَانُ اللَّهُ مِنْ كَذْبًا" کے معنی میں۔ و "أَنْتَ

أَعْلَمُ بِمَا فِي سَبِيْحَاتِكَ" یعنی جو کچھ تیرے

نفس میں ہے اس کا تو زیادہ جانتے والا ہے۔

التسبخة۔ مع۔ تسبخ کے کلمات۔ ج تسابیح۔

التسابع۔ فا۔ ج۔ تسابیحون و تسابح و تسبحاء مؤنث تسابحة ج تسابحات و تسابح۔ والتسابع من الخليل: تيز رفتار گھوڑا۔ التسابيح: تيز رفتار گھوڑے۔ التسابحات: کشتیاں۔ ستارے یا موشین کی ارواں جو آسانی سے قبض کی جاتی ہیں یا فرشتے جو آسمان و زمین کے درمیان تسبیح کرتے رہتے ہیں۔

التساجح۔ تسابیح کا مبالغہ۔ بڑا تیراک۔ ج تسابحون۔

التسبوح۔ تیراک ج تسبحاء۔ فزس تسبوح: تيز رفتار گھوڑا جو اپنی رفتار میں ادھر ادھر نہ ہوتا ہو۔

التسبوح والتسبوح۔ باری تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اس لیے کہ اس کی تسبیح کی جاتی ہے۔

تسبوح (مستسخ) مضبوط پیرا۔

المستبخة والمستبخة۔ انکشت شادت۔

المستبخة۔ عند العامة: عوام کے نزدیک بمعنی نفل نماز۔ تسبیح یا تسلی۔

تسبخل مستبخة۔ سبحان اللہ کہنا۔

المستبخل۔ موتہ۔ جارية۔ مستبخلة۔ موتی لپی لڑکی۔

تسبخن۔ سبحان اللہ کہنا۔

تسبخ (ن) تسبخا۔ گمری نیند سونا۔ فارغ ہونا۔ دور ہونا۔

تسبخ (س) تسبخا۔ المكان: شورے والی ہونا۔ صفت (تسبخ)

تسبخ عندہ: ہلکا کرنا۔ کہا جاتا ہے "اللہم تسبخ عتق الخمي او الشدة" اے اللہ مجھ سے بخار یا سختی کو ہلکا کر دے۔ الحخر: ٹھنڈا کرنا۔

الظن ونحوه: روٹی دھنسا۔

الزجل: گمری نیند سونا۔ فارغ ہونا۔

العزوق: رگ کا ساکن ہونا۔ الحخر: گمری کام ہو جانا۔

أمتبخ: فی الحفر ہکھونے میں زمینی شور

تک پہنچنا۔ المكان: زمین شور والی ہونا۔ تسبخ: الحخر او الغضب: گمری یا غصہ کا ٹھنڈا پڑنا۔

أرض (تسبخة) ج سباح (وسبخة) ج تسبحات: زمین شور۔

التسبخة والتسبخة۔ تمکین و دلدلی زمین۔ کالی کی ہانڈ جو پانی کے اوپر آجائے۔ ج سباح۔

السباح: من الأرض: دیران کھیت جو جو تانہ گیا ہو۔

التسبخ: روٹی کا پھایا یا بکھرے ہوئے پروٹیرہ۔

التسبخة: دھکی ہوئی روٹی کا گالا۔ ج تسابیح۔

تم کہتے ہو "طازت تسبخ الظن" روٹی کے گالے اڑے۔

تسبد (ن) تسبدا۔ الشمر: بال موٹنا۔

شاربہ: موٹھوں کا بڑھ کر ہونٹوں کو گھیر لینا۔

تسبد الشمر: بال کا موٹنے کے بعد لگانا۔

الفرخ: چوزے کے پر لگانا اور سخت ہونا۔

الزحل سر میں تیل نہ لگانا۔

رأسه: سر میں کنگھی کرنا اور ترک کرنا پھر چھوڑنا۔

شعره: بال کو جڑ سے موٹنا۔

العشب: پرانی گھاس میں نئی گھاس آگنا۔

أشبذ الشمر: بال موٹنا۔ العشب: پرانی گھاس میں نئی گھاس آگنا۔

السبد: بھینڑا۔ مصیبت۔ ج أمسباد۔

الأمسباد: کالے کپڑے۔ أمسباد العشب: گھاس کا سرا ابتدائی روئیدگی کے وقت۔ اور کہا جاتا ہے "هو مسبد من الأمسباد" وہ چوری میں بڑا ہو سیکر ہے۔

التسبد: کم بال۔ کہا جاتا ہے "مائله تسبد ولا تسبد" اس کے پاس نہ تو بال ہیں نہ اون یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔

التسبد: سڑ گھاس کا بقیہ۔

التسبد: جھپٹرا جس سے حوض کی ٹالی بند کی جائے۔ بد بختی۔ ج سبدان۔ ایک قسم کا پر عہ جس کے پر وھاری دار ہوتے ہیں اور اس کا منہ کشادہ اور سرو چوڑی ہوتی ہے۔ التسبدو التسبدة۔ پیڑو۔

التسبندی۔ لبا۔ ریز چیا (الف الحاق کیلئے ہے تاسیہ کیلئے نہیں) ج تسباید۔ و تسبایدة۔ التسبایدة: کھیل کود میں رہنے والے لوگ۔

التسبادج۔ قلب خوراک۔ کہا جاتا ہے "أصبغنا مسبادج و لصبتنا عجاج من العرث" ہم نے کئی خوراک کے ساتھ صبح کی اور ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے بلجا رہے تھے۔

التسبایدة۔ بیکار لوگ۔ کھیل کود میں مشغول لوگ۔

تسبر (ن ض) تسبوا و تسبر و امسبر۔ الحزج او البسوا الماء: گمرانی کی آزمائش کرنا۔

الأمور: تجربہ کرنا۔ آزمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے "هذه مفازة لأتسبر" اس بیابان کی وسعت کا اندازہ معلوم نہیں۔

التسبر۔ مع۔ شمرا (و السبر) اصل۔ رنگ۔ جمال۔ ہیبت۔ مشاہد۔ کہا جاتا ہے "فلان حسن الجبر والسبر" جبکہ اچھی ہیبت والا اور جمیل ہو "وزأينہ تسبر السبر" جبکہ لاغر اور رنگ بدلا ہوا ہو "وقد غلب عليه تسبر فلان" اس پر فلاں کی مشاہد غالب ہے۔

السبر: دشمنی۔ ج أمسبار۔

التسبرة۔ ٹھنڈی صبح۔ ج تسبرام۔

التسبرو والتسبرة۔ ایک شکاری پرندہ۔

السبار۔ ج سبرو (المسبرو والمسبار) ج مسابرو و مسابرو: زخم کی گمرانی معلوم کرنے کی سلاخی۔ السبار: افریقہ کے جنگلوں کا ایک درندہ جو بیوکے مشابہ ہوتا ہے۔

السبارة۔ ایک قسم کا جہاز۔

التسابری۔ ساہو کی جانب منسوب۔ عمدہ کھجور۔ باریک بینی ہوئی مضبوط زرد۔

التسبورة۔ سلیٹ۔ بلیک بورڈ۔

المسبر۔ ہیبت و حسن و جمال۔ کہا جاتا ہے "حیدت مسبرو فو مخبره"

المسبار۔ زخم کی گمرانی معلوم کرنے والا۔ ج مسابرو۔

مسنبرة۔ الحزج: زخم کی گمرانی۔

الشئی: سات بنانا۔ العکائی: بہت درندوں والی ہوتا ہے۔ درندے کا گوشت کھانا۔ الزجیل: گھٹ پر ساتویں دن جانے والے اونٹوں کا مالک ہوتا۔ ایسے اونٹوں کو (سوابع) کہتے ہیں۔

السنبع: الشئی: کسی چیز کو چرانا۔ الغنم: بکری کو چارنا۔ القوم: سات ہونا۔ السابع: ساتواں۔ سنبعہ و سابعون: سنبعہ۔ سات۔ مؤنث۔ سنبع۔

السنبع: سنبعہ کا مؤنث۔ یوم السنبع: قیامت کا دن۔ السنبع المغانی: سورہ فاتحہ یا پہلی سات سورتیں۔ کہا جاتا ہے "ظاف بالنیب سنبعاً" اس نے بیت کاسات مرتبہ طواف کیا۔

السنبع والسنبع والسنبع: درندہ۔ سنبع و سابع و شوع و شوعہ مؤنث سنبعہ و سنبعہ۔ السنبع من القطیر: شکاری پرندہ۔

السنبع: ساتواں حصہ۔ سنبع و خمی السنبع: ساتویں روز کی باری کا بخار۔

السنبع: اونٹوں کا ساتویں دن گھٹ پر آنا۔ السنباعی: سات گوشے والا۔ سات حروف والا لفظ۔ بڑا اونٹ۔ سباعی البدن: پورے قد و قامت والا۔ مؤنث سنباعی: ساتویں مینے پیدا ہونے والا بچہ۔

السنبعون: من العدد: ستر (تکرار مؤنث دونوں کے لئے)۔ السنبع: ساتواں حصہ۔

السنبع: ہفتہ۔ سنبع ارض (سنبعہ) بہت درندوں والی زمین۔ السنبع: ساتویں مینے پیدا شدہ بچہ۔ وہ بچہ جس کی ماں مرگئی ہو اور کوئی دوسری عورت دودھ پلائے۔ سنبلوینا۔

السنبع: درندہ سے خانقہ۔ السنبعون: بہت لمبا۔ زجل (سنبعون) بیباک مرد۔

سنبع (ن) سنبعون: العیش: زندگی کا وسیع و فراخ ہونا۔ القوب: کپڑے کا زمین تک لمبا ہونا۔ الشئی: پورا ہونا۔ الی وقلینہ: ناکل ہونا۔ المظن: بارش کا زمین

بال۔ السنبط: درخت جس کی ڈالیاں بہت ہوں اور بڑا یک ہو۔

سنباط: بروزن نظام بمعنی بخار۔ سنباط: ایک ترکی مہینہ مطابق ماہ فروری۔ اس کو شباط بھی کہتے ہیں (اور یہ منحرف اور غیر منحرف دونوں ہے)۔

السنباط: بال جو گنگھی کرنے سے گریں۔ کوڑا کرکٹ۔ کوڑا خانہ۔ الشباط: ایک سمندری جانور۔

السنباط: چھت جو دو مکانوں کے درمیانی راست پر ہو۔ سنباط و سنباطات۔ السنبطانہ: نے۔ جس میں گولی ڈال کر پرندہ کو مارتے ہیں۔

السنبط: اسیطرا۔ دراز ہو کر لیٹنا۔ السنبطات الابل: تیز چلنا۔ لہ البلاد: کسی کیلئے ممالک و بلاد کا درست ہونا۔

السنبط: تیز خاطر و جالاک۔ لبا۔ اسد سنبط: حملہ کرنے کے وقت دراز ہونے والا۔ کہا جاتا ہے "حتمال سنبطات" لیٹے ہوئے اونٹ (اس میں تا تانیک کے نہیں بلکہ ایسی ہی ہے جیسے حتمات اور جالات مذکر کی جمع میں)۔

السنباط و السنبط: لبا۔ سنبط: سنبع (ن) سنبع۔ سنبعان: ساتواں ہونا۔ مال کا ساتواں حصہ لینا۔ الحیل: سات لڑی کی

رہی بنانا۔ الشئی: سات بنانا۔ الزجیل: غیب کرنا۔ گلی دینا۔ الشئی: چرانا۔ الذئب الغنم: بھیڑیے کا بکری کو چارنا۔ سعیت: الزحیة: درندے کا بچہ کو کھانا۔ صفت (سنبعون)۔

سنبعہ: سات بنانا یا سات گوشہ کا بنانا۔ الإناء: برتن کو سات مرتبہ دھونا۔ اللہ لك: سات مرتبہ یا سات گنا دینا یا سات اولاد دینا۔ العزاة: عورت کا ساتویں مینے بچہ چلنا۔ القوم: پورے سات سو ہونا۔

سابعہ و سابعون و سابعان: گلی گلوچ کرنا۔ سنبع: القوم: سات ہونا۔ الزامی: چرواہے کے جانوروں میں درندہ کا چرنا۔

المسنبر: آزانش۔ المسنبر: مہ۔ اچھی بہت والا۔ سنبر: الزجیل: قامت کرنا۔ السنبر و السنبر و السنبر و السنبر: مسکن و محتاج۔ سنبر و سنبر و سنبر: تھوڑی چیز۔ امر لڑکا۔ السنبر من الارض: چھیل بیابان۔ السنبر: وہ شخص جس کے بال نہ ہوں۔ سنبر: الماء: پانی بنانا۔ الزجیل: نرم و آہستہ چلنا۔ بری گلی دینا۔ سنبر: الماء: پانی بنانا۔

السنبر: بیابان۔ دور کی ہموار زمین۔ سنبر اور کہا جاتا ہے "ارض سنبر" او سنبر اور کہا جاتا ہے "ارض سنبر" او سنبر اور کہا جاتا ہے "ارض سنبر"۔ سنبر (ن) سنبر و سنبر و سنبر و سنبر (ن) سنبر و سنبر و سنبر و سنبر۔ سنبر: بالوں کا سیدھا ہونا۔ سنبر (ک) سنبر: المظن: بہت بارش ہونا اور دور تک ہونا۔ سنبر سنبر: بخار ہونا۔ سنبر: القافۃ او العجۃ: اونٹنی یا بھیڑ کا ناتمام بچہ کرنا۔ صفت (سنبر)۔ سنبر: خوف کی وجہ سے چپ رہنا۔ کمزور ہونا۔ گر کر بے حس و حرکت ہونا۔ بالارض: چلنا۔ لہ نومہ: نیند میں آگھیں بند کرنا۔ عن الامر: غفلت کرنا۔ السنبر: اولاد کی اولاد۔ اس کا اطلاق اکثر نواسوں پر ہوتا ہے جیسے حنیف کا اطلاق پوتوں پر۔ من الیہود: یہ لفظ یہودیوں کے لیے ایسے ہی مستعمل ہے جیسے عرب کیلئے کافلہ۔ سنباط۔

السنبط و السنبط من الشفر: سیدھے بال۔ السنبط من المظن: بکرت بارش۔ سنباط: کہا جاتا ہے "هو سنبط التبدین او سنبط البنان" یعنی وہ فیاض و کریم ہے۔ و "سنبط الجسم" عمدہ قد و قامت والا۔ السنبط: تروتازہ لٹی گھاس۔ چینا کی مانند ایک پودہ۔ واحد (السنبط)۔ سنبر: سیدھے

سے قریب ہوتا۔

إِسْتَبَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ النِّعْمَةَ: نعمت کا کمال کرنا پوری کرنا۔ التَّوْبُ: کپڑے کا لہا و کشادہ کرنا۔ التَّوْبُ: پوری زہر منہنا۔ لَعْنَةُ التَّفَقُّةِ: کسی کے لیے کشادگی سے خرچ کرنا اور تمام ضروریات پوری کرنا۔

السَّابِقُ: فا۔ ذِئْبٌ سَابِقَةٌ: پوری زہر۔ ج۔ سَوَابِغٌ ذَنْبٌ سَابِغٌ: لمبی دم۔ سَابِغٌ الْإِلْتِمَاسِ: بڑے چوڑوں والا۔

السَّنْبِقَةُ: آسورگی۔ وسعت۔ التَّنْبِيعُ وَالتَّسْبِيفَةُ: خود کا وہ حصہ جو زہر کی کڑیوں سے مل کر کڑوں کو چھپاتا ہے۔ ج۔ تَسْبِيعٌ (دو توں لفظ قریب سے بھی ہیں)۔

سَبَقَ: إِسْتَبَقَ التَّوْبُ: کپڑے کپانی سے تر ہونا۔ السَّعْفُ: بالوں کا تیل سے تر ہونا۔

السَّابِقُ: فَرَّاحٌ وَدِرَّازٌ۔

سَبَقَهُ (ان ض) سَبَقًا: اِلَى كَذَا: آگے بڑھ جانا۔ هُوَ عَلِيٌّ كَذَا: غالب ہونا۔ سَبَقَ عَلِيٌّ قَوْمَهُ: قوم سے بخش و کم میں بڑھ جانا۔ صفت (سَابِقٌ) ج۔ سَابِقُونَ وَسَابِقٌ۔

سَبَقَهُ: شَرُّهُ لِيَا يَرْتَابُ: الشَّاءُ: کبری کا نا تمام پچ کرانا۔ الطَّيْرُ: پرندہ کے پیر میں بدھن من ڈالنا۔ سَبَقَ الْبَدْرُ بَيْنَ الشُّعْرَاءِ: دس ہزار کی قبلی شعراء کے درمیان رکھنا تاکہ جو غالب ہووے۔

أَسْبَقَ الْقَوْمُ إِلَى الْأَمْرِ: سبقت کرنا۔ سَابِقَةٌ سَبَاقًا وَفَسَابِقَةٌ: آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ تم کہتے ہو "سَابِقَتْ بَيْنَ الْخَيْلِ" میں نے گھڑوڑوں میں مقابلہ کرایا۔

تَسَابَقَ وَاسْتَبَقَ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ اسْتَبَقَا التَّابَ: اِلَى التَّابِ: دونوں نے دروازے کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اسْتَبَقَا الصُّوَابَ: دونوں آگے بڑھ گئے اور راستہ کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ گمراہ ہو گئے۔

السَّبِقُ: ج۔ اسْبَاقٌ وَالسَّبِقَةُ: شرط جو آگے بڑھنے پر رکھی جاتی ہے۔

کما جاتا ہے هُنَا (سَبَقَانِ) وہ دونوں ایک

دوسرے پر سبقت کرنے والے ہیں۔

السَّابِقُ: فا۔ گھڑوڑوں کے میدان کا پہلا گھوڑا۔ اس کو بجلی بھی کہا جاتا ہے بقیہ گھوڑوں کے نام ترتیب وار یہ ہیں۔ الْمُسَابِقِيُّ: الْقَائِلِيُّ: الْمَرْوَاخُ: الْعَاطِفُ: الْحَظِيئِيُّ: الْمَوْجِلِيُّ: الْمَلَطِيمُ: السُّكَيْتُ: ج۔ سَابِقُونَ وَسَابِقٌ اور کبھی اس کو اسم قرار دے کر سَوَابِقٌ جمع لاتے ہیں۔ جیسے خاتم و نحوہ۔

السَّابِقَةُ: السَّابِقُ كَالْمَوْثِ: اولیت۔ کما جاتا ہے "لَعْنَةُ سَابِقَةٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ" اس کو اس معاملہ میں اولیت حاصل ہے۔ ج۔ سَوَابِقٌ وَسَابِقَاتُ: السَّوَابِقُ: گھوڑے۔

السَّابِقُ: سبقت کرنے والے۔

السَّبَاقُ: مِمَّ - يَأْتِي بَدْنٌ - بَدْنُش - سَبَاقُ الْخَيْلِ: گھڑوڑ۔

السَّبَاقُ وَالْمَسْبِقِيُّ: مِنَ الْخَيْلِ: آگے بڑھنے والا گھوڑا۔

سَبَقَ (ان ض) سَبَقًا وَسَبَقًا: الْفَيْضَةُ: بَحَلًا كَرَسَانِيٍّ مِمَّنْ يُدَاهِنُ: الْكَلَامُ: کلام کو خوشو زود اند سے پاک کر کے عمدہ بنانا۔ سَبَقَتَهُ التَّجَارِبُ: مَذَبٌ بَنَانَا۔

إِسْبَاقُ الْذَّهَبِ وَنَحْوُهُ: بَحَلَانَا: دُحْلَانَا: السَّبِيكُ: بَحَلَانَا: مِلَّ نَجِيلٍ سَهَابٌ كَمَا هُوَ: کما جاتا ہے "تَبِيْرُ سَبِيكٍ" السَّبِيكَةُ: چاندی وغیرہ کا ڈالا جو بھلا کر سانچے میں ڈھالا گیا ہو۔ ج۔ سَبِيكٌ۔

السَّبِيكُ: بَحَلَانَا: اِلَى كَذَا: آگے بڑھنے کی جگہ۔ ج۔ فَسَابِيكٌ۔

إِسْبَاقُ: دِرَّازٌ هُوَ كَرِيْلَانَا: الْأَسَدُ: حملہ کے وقت دِرَّاز ہونا۔ اسْبَاقَاتُ: الْحَارِيَةُ: پورے قدم والی ہونا۔

سَبَقَ (ان) سَبَقًا: لَحَالًا: دِنَا: سَبَقَ: الْمَالُ: اللہ کی راہ میں خیرات کرنا۔ السَّبَقُ: مَبَاهٌ كَرْنَا: الْمَسْتَرُ: پردہ لگانا۔

أَسْبَقَ: الْمَسْتَرُ: پردہ لگانا۔ الذَّمْعُ: آسور بھانا۔ الْمَاءُ: پانی گرانا۔

الظَّرِيقُ: سبقت آمد و رفت والا ہونا۔

السَّمَاءُ: بَرَسًا: الذَّمْعُ: اِلَى الْغَطْرِ: بَكْفَرَتُ: آسور بھانا یا بکفرت بارش ہونا۔ الزَّرْعُ: خَوْشٌ لَحْنًا۔

عَلَى فَلَانٍ: کسی کے خلاف سبقت کرنا۔ السَّبِيلُ: بارش جو ابھی زمین تک نہ پہنچی ہو۔ آگے کی ایک بیماری جس میں آگے پر پردہ ہو جاتا ہے۔ جسے دہلی بارش یا خون۔ خَوْشٌ: ناک۔ أَسْبَلُ الذَّمْعُ: اِلَى الْغَطْرِ: كَالْمَسْمُومِ: کما جاتا ہے "سَبَقَ مِنْ رِمَاحٍ" تیروں کا مجموعہ خواہ کم ہو یا زیادہ "تَبِيْبَاتُ سَبَقَ": لٹکانے ہوئے کپڑے۔

السَّبِيْلَةُ: مَوْنَجٌ كَالْبَالِ: اوپر کے لب کے درمیان کا دائرہ۔ دَائِمِيٌّ كَالْمَكَا حَسْرَةٍ: ج۔ سَبِيْلٌ) وَ السَّبِيْلَةُ وَ السَّبِيْلَةُ: خَوْشٌ: کما جاتا ہے "مَلَأَ الْإِنَاءَ إِلَى سَبِيْلَتِهِ" اس نے برتن کو کنارہ تک بھر دیا۔ و "حَسْرَةُ سَبِيْلَتِهِ" اس نے کھمبے سے اسے کپڑے سے بچھنے و "بَعِيْرٌ حَسَنٌ السَّبِيْلَةُ" باریک کھال والا اونٹ۔ و "حَسْرَةٌ وَ قَدْ نَشَرُ سَبِيْلَتِهِ" وہ دھکی دیتا ہوا آیا۔

السَّبِيْلُ: رَاسَةٌ يَا وَرَاحٌ رَاسَةٌ (مذکر مؤنث) ج۔ سَبِيْلٌ وَ سَبِيْلٌ وَ أَسْبَلٌ وَ أَسْبَلَةٌ وَ سَبِيْلٌ: اِلَى السَّبِيْلِ: سَافِرٌ: سَبِيْلُ: اللہ: جہاد۔ طَلَبٌ: عِلْمٌ۔ ج۔ اِسْمُ رَجُلٍ جَنَّ كَاللَّهِ لَمْ يَحْمَدْهُ: کما جاتا ہے "لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ سَبِيْلٌ" تم کو میرے اوپر مواخذہ کا کوئی حق نہیں۔ و "لَيْسَ عَلَيَّ فِي كَذَا سَبِيْلٌ" میرے اوپر اس میں کوئی مواخذہ نہیں اور مولدین کہتے ہیں "مَا عَلَيَّ الْمُخْبِرِينَ سَبِيْلٌ" مہمن پر کوئی معارضہ نہیں۔ و "سَبِيْلَانَا أَنْ نَفْعَلُ كَذَا" یعنی ہم اس کام کے لائق ہیں۔

السَّبِيْلَةُ: رَاسَةٌ يَا وَرَاحٌ رَاسَةٌ۔ السَّبِيْلَةُ: رَهْ جَلَا رَاسَةٌ: کما جاتا ہے۔ "سَبِيْلٌ سَابِلَةٌ" راستہ پر گزرنے والے لوگ۔ ج۔ سَوَابِلٌ۔

عَقِيْقٌ (سَبَلَاءٌ) لِسْبَعِ بِلَوْنِ: اِلَى آتَمَةٍ: اِمْرَأَةٌ سَبَلَاءٌ: مَوْنَجُونَ وَ اِلَى عَوْرَتِ۔

الْأَسْبَلُ وَ الْمَسْبَلُ وَ الْمَسْبَلُ وَ الْمَسْبَلُ: الْوَسْبَلُ: لِمَنْ سَوَّجَحُونَ وَ اِلَى الْمَسْبَلِ: كَرَاهٌ: جَوْنٌ كَالْمَسْبَلِ: لِمَنْ سَوَّجَحُونَ يَا چمٹا تیرا۔ ذی الحجہ۔

فَقَلَاءٌ وَ شَهْدَاءٌ وَ شَجَرٌ مَسِيْرٌ : بہت ڈالیں
والاورخت۔
المَسْتَوْرُ : غم پاک دامن ج مَسْتَوْرُوْنَ ج
مَسَائِرُ۔
السَّارُ : سائبر کا مبالغہ اور یہ صفات باری
تعالیٰ میں سے ہے۔
الإِسْتَارُ : مِنَ الْعَدُوِّ : چار — فنی
الْوَزْنُ : چار حقل ج اَسَاتِرُ وَ اَسَائِرُ۔
المَسْتَوْرُ وَ الإِسْتَارَةُ : برہ۔
المُسْتَرُ : غم - جَارِيَةٌ مُسْتَرَةٌ : پردہ نشین
لڑکی۔
المُسْتَعِ وَ المُسْتَعِج : چست و جھلاک اور
بہت کار گزار مرد۔
السُّتُوْقُ وَ السُّتُوْقُ : کھوٹا درہم جس پر
چاندی کا طبع ہو۔
المُسْتَقَّةُ وَ المُسْتَقَّةُ : بے آسٹین کی
پوشین - چنگ و غیرہ بجائے کالہ۔
مَسْتَلٌ (ن) مَسْتَلٌ وَ مَسَاتِلٌ وَ اَسْتَلٌ
وَ اَسْتَلٌ : القَوْمُ : بے درپے یکے بعد دیگرے
لگنا — اَلْوَلُوْ : موتیوں کا لگانا بگھرتا
الدَّفْعُ : اَسْرَقْرَه قَطْرَه بَرَا : صفت (سائیل)
مَسِيْعٌ (س) مَسْتَلٌ وَ مَسَاتِلٌ : بیروی کرتا۔
المَسْتَلُ : مہ - عقاب یا ایک قسم کا پرندہ جو
عقاب یا گدھ کے مشابہ ہوتا ہے - ج بَسْلَانٌ وَ
بَسْلَانٌ۔
المَسْتَالَةُ : روی چیز۔
المَسْتَلُ : ننگ راست - ج مَسَاتِلُ۔
اَسْتَقْنُ : الوَجْلُ فِي السَّنَةِ : قَطْ سَالِي مِسْ پڑنا۔
الْأَسْتَقْنُ وَ الْأَسْتَقْنُ : بوسیدہ درخت کی
جڑیں۔
الإِسْتِقْنَةُ : شہر تھنہ۔
سَقَةٌ (ف) مَسْتَقَةٌ : الوَجْلُ : بیچھے لگنا - جو تر پر
بارنا۔
السَّقْوَةُ وَ السَّقْوَةُ : سرن - ج اسقہ۔
الْأَسْتَقْنُ وَ السَّقْوَةُ : بڑی سرن والا - ج سَقْوَةُ
وَ سَقْوَانٌ وَ سَقْوَانٌ : مَوْنَسْتَقْوَانٌ۔
مَسَاتِلٌ (ن) مَسَاتِلٌ : چلدی کرتا۔
أَسْتَقْنُ وَ مَسْتَقْنُ : القَوْمُ : کپڑا بننے کے لیے

وے۔
المَسِيْرُ : قیدی مرد - قیدی عورت - کہا جاتا ہے
"عَلَامٌ مَسِيْرٌ وَ جَارِيَةٌ مَسِيْرَةٌ" - ج مَسَائِرُ مَسِيْرٌ
الحَيَّةُ : سانپ کی کینچلی جس کو چھوڑ دے۔
المَسِيْرَةُ : قیدی عورت - ایک شہر سے دوسرے
شہر میں بھیجی ہوئی شراب - موتی جس کو غوطہ خور
نکالے۔
المَسِيْرُ وَ السَّيَاءُ : لکڑی جس کو سیلاب ایک
جگہ سے دوسری جگہ لے جائے۔
المَسَائِرُ : شہد - بہت اونٹ و بکری - اونٹ جو
نسل بڑھانے کیلئے ہوں - بہت نسل والی بکریاں - ج
مَسَائِرُ : المَسَائِرُ : جنگلی چوہے کے سوراخ کی
مٹی۔
السَّتُ : عیب - بڑی گفتگو۔
المَسِيْرَةُ : چوہ - مذکر کے لیے مستعمل ہے اور
مؤنث کے لیے سَتٌ۔
السَّتَاتُ : چھٹا۔
المَسِيْرُونَ : ساٹھ (مذکر و مؤنث)
السَّتَبُ : ایک قسم کی تیر چال۔
مَسْرٌ (ن) مَسْرٌ وَ مَسْرٌ وَ مَسْرٌ : الشَّقِيُّ :
کسی چیز کو چھپانا - ڈھانکنا۔
مَسَاتِرُهُ مَسَاتِرَةُ الْعَدَاوَةِ : عقل دشمنی کرتا۔
مَسْرٌ وَ مَسْرٌ وَ مَسْرٌ : چھپنا - ڈھک جانا - کہا
جاتا ہے "هُوَ لَا يَسْتَرِي مِنَ اللَّهِ بِسَرِّهِ" یعنی وہ اللہ
تعالیٰ سے ڈرتا نہیں۔
المَسْرُ : پردہ - خوف - حياء - ج مَسْرٌ وَ اَسْمَارٌ
کہا جاتا ہے "مَالَهُ مَسْرٌ وَ لَاجِبُهُ" یعنی اسے حياء
عقل نہیں - و "ہتک اللہ مَسْرُهُ" اللہ نے اس
کے پردہ کو بھاڑ دیا - یعنی اس کی بنائیاں ظاہر کر
دیں۔
المَسْرُ : مہ - ڈھال۔
المَسَارُ : پردہ - ج مسر - کہا جاتا ہے "مَدَّ اللُّبْلُبُ
مَسَارَهُ" رات نے اپنے پردہ کو پھیلا دیا - یعنی
تاریکی چھیل گئی۔
المَسْرَةُ : ج مَسْرٌ وَ (المَسَارَةُ) مَسَائِرُ : پردہ -
مَسْرَةُ السَّنَطِجِ : جھت پر پردہ کی دیوار۔
المَسِيْرُ : چھپا ہوا - پاکہ اسن - کہا جاتا ہے
"رَجُلٌ مَسِيْرٌ وَ اِمْرَاَةٌ مَسِيْرَةٌ" - ج مَسْرَاءُ : مثل

أَسْتَبْتُ : المَرْأَةُ : بیٹھ سیادہ بہن ہاں صتا۔
المَسِيْرَةُ : عورتوں کا یادہ بند۔
المَسْبُتُ وَ المَسْبُتَةُ : عرصہ - کہا جاتا ہے
"أَقْبَتُ حَيْثُ مَسْبُتًا" اس کے پاس میں نے
عرصہ تک اقامت کی۔
المَسْبُتِيُّ : دلیر - پیش قدمی کرنے والا - چھپنا - ج
مَسْبَاتٌ وَ مَسْبَاتٌ۔
المَسْبُتِيُّ : دلیر - جنگ میں پیش قدمی کرنے
والا - ج مَسْبَاتٌ۔
مُسَبِّهُ سُنْبُهَا وَ مَسْبَةُ سُنْبُهَا : بڑھاپے کی وجہ
سے عقل زائل ہونا - صفت (مَسْبُوْهُ وَ مَسْبِيْهُ)
السَّبُّ : بڑھاپے کی وجہ سے زوال عقل۔
رَجُلٌ (مَسْبُوْهُ وَ مَسْبِيْهُ) : مغرور مرد۔
السَّبُّ : سکتہ - زوال عقل۔
رَجُلٌ (مَسْبِيْهُ) : بڑھاپے کی وجہ سے عقل
زائل شدہ مرد۔
المَسْبِيُّ : فصیح زبان والا۔
مَسْبَلٌ : کہا جاتا ہے "جَاءَ الرَّجُلُ
مَسْبَلًا" مرد بغیر ہتھیار اور ڈنڈے کے آیا - یعنی
لاپردہائی سے آیا یا بغیر کسی کام کے آیا - و "هُوَ
يَفْسِيْهُ مَسْبَلًا" وہ بیکار آتا ہے۔
مَسِيٌّ : مَسِيٌّ مَسِيٌّ وَ مَسِيٌّ : العَدُوُّ : دشمن کو
قید کرنا — الرَّجُلُ : دور کرنا - جلا وطن کرنا
— العَضْرُ : شراب کو ایک شہر سے دوسرے
شہر لے جانا — العَضْرُ : پانی تک
کھوٹا — فَلَانًا : کسی کو اپنی محبت میں قید
کرتا۔
إِسْبِيٌّ : اِسْبِيَّةُ : العَدُوُّ : دشمن کو قید کرنا
— قَلْبُ فَلَانٍ : کسی کے دل کو اپنی محبت میں
قید کرنا — العَضْرُ : شراب ایک شہر سے
دوسرے شہر لے جانا۔
تَسَابِيٌّ : القَوْمُ : بعض کا بعض کو قید کرنا۔
تَسْبِيٌّ : فَلَانٌ فَلَانٌ : کسی کا کسی سے اعظام
محبت کرنا اور اپنی طرف مائل کرنا۔
المَسِيْرُ : مہ - قیدی - کہا جاتا ہے "جَاءَ رَا
بَسْبِيٌّ كَيْفِيٌّ" عموماً امیر کا لفظ مردوں کیلئے اور
مَسْبِيٌّ کا اطلاق عورتوں پر ہوتا ہے - ج مَسْبِيٌّ - و
مَسْبِيٌّ الحَيَّةُ : سانپ کی کینچلی جس کو چھوڑ

بیسے کی جگہ - سج سواجن۔

السجین - ہمیشہ - سخت۔ وہ شخص جو ہمیشہ بلا بیوی کے رہے۔ ایک مقام کا نام جس میں کفار و فجار کے اعمال ناسے ہیں۔ جنم کی ایک وادی کا نام۔ برلا و اعلائیہ۔ کہا جاتا ہے "جاء سجینا" وہ برلا آیا۔ کجور کے درخت کے ارد گرد کاڑھا۔

السجینجل - آئینہ - چاندی کا کلا۔ سج سناجل۔

سجائسجوسجواو سجوا اللیل: رات کا سنان ہونا۔ ہمیشہ رہنا۔ النافقہ: کسی آواز نکالنا۔ سجی سجینة۔ المیت: میت کو کپڑے سے ڈھکانا۔ اور اسی سے ہے "سج معائب" آنجینک "اپنے بھائی کے عیوب کو چھایا۔

انسجت اسجاء۔ النافقہ: اونٹنی کا زیادہ دودھ والی ہوتا۔ انسجی البعثر: سمندر کی موجوں میں سکون ہونا۔ الزجل: کسی چیز کو چھپانا۔

سجاء۔ کسی کام کو ہمیشہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "انا بالقطاع فمنا ساجناہ" وہ ہمارے پاس کھانا لایا ہم نے اس کو نہیں چھوڑا۔

الساجی۔ نا۔ ساکن۔ فراریت۔ نرم۔ کہا جاتا ہے "عقین ساجینة" جھکی ہوئی آنکھ۔ و "لیلۃ ساجینة" سنان رات۔ بہت تاریک رات جو ہر چیز کو ڈھانک لے۔

افزاة (سجواء) الظرف: جھکی ہوئی نگاہ والی عورت۔ ناقة سجواء: دوشے کے وقت خاموش رہنے والی اونٹنی۔ ریح سجواء: نرم ہوا۔

السجینة۔ طبیعت۔ عادت۔ سج سجمیات و سجمایا۔

سج (ان) سجماء۔ بہت موٹا ہونا۔ الماء: پانی کو لگاتار بہت گراتا اور اسی سے ہے "استشده فبینه فسجھا علی سجا" میں نے اس سے قہیدہ پڑھوایا اس نے میرے سامنے لگاتار پڑھا۔ ہمارا۔ کہا جاتا ہے "سجھا ما تہ سوط" اس نے اس کو سو کوڑے مارے (سجھا و سجوا و تسجیح) بہت بہنا۔

سحت (ض) سجوا و سجواحة: البشاء: بہت موٹی ہونا گویا کہ موٹاپے کی وجہ سے چربی براتی ہے۔ صفت (سح و سحا و سجح و سجح۔

انسح۔ ایضاً البعیر عرفاً: اونٹ کی نبل سے پسینہ بہنا۔

السح و السح۔ خشک تفرق کجوریں۔ السحاح۔ نفاء آسلی۔

سحابة (سجوح) بہت بارش والا بادل۔ غارة (سحاء) اچھا کدو، دشمن پر مصیبت لانے والی لوٹ۔

عین (سحابة) بہت آنسوؤں والی آنکھ۔ فرس (سح) تیز رفتار عمدہ گھوڑا۔

سحبة (ف) سحبا۔ زمین پر گھسنا۔ الزجل: بہت کھانا پینا۔ کہا جاتا ہے "جاء بسحب ذیلہ" وہ منگھیرانہ چال چلتا ہوا آیا۔

تسحب۔ علیہ: باز کرنا۔ من الأکل او الشرب: بہت کھانا پینا۔ فی حقی فلان: پھین کر اپنے حق میں ملایا۔ السحب۔ گھسنا۔

السحبة۔ آنکھ کا پردہ (سحابة) تالاب لابی ماند پانی۔

السحاب۔ بادل۔ سج سحوب۔ واحد (سحابة) سج سحابیب۔ کہا جاتا ہے "أفقت عندہ سحابة یؤہتا" میں نے اس کے پاس پورے دن اقامت کی۔

السحیل۔ کشادہ وادی۔ بلاؤول۔ بڑی مگ۔ بلاجیٹ۔ بڑی گود۔

سحت (ف) سحوا و سحت۔ حرام مال کھانا۔ ہلاک کرنا۔ جڑ سے اکھیرتا۔ زنج کرنا۔

سحت السخیم عن اللعیم: چربی کو گوشت سے علیحدہ کرنا۔ و جهة الأرض: مٹانا۔

أسحتہ: خراب کرنا۔ ہلاک کرنا۔ جڑ سے اکھیرتا۔ أسحتت یجارتہ: تجارت میں حرام داخل ہونا۔

أسجت۔ مال ضائع ہونا۔ السجت۔ مہ۔ بوسیدہ کپڑا۔ عذاب۔ اور کہا جاتا ہے "مائلہ أو ذمہ سحت" اس کا مال یا خون اس

فص کیلئے جوان کو محدود کرے مباح ہے۔ السحت و السحت۔ حرام۔ ہر وہ کمالی جو غیبی کتب و شیخ ہو اور اس سے عار لازم آئے۔ جیسے رشوت وغیرہ۔ سج أسحتات۔

قال (سحت و سحت و سحت و سحت و منسحت و منسحت) تلف شدہ مال۔ ہلاک شدہ مال۔ زجل سحت و سحت: بڑا چوڑا۔ آسورہ ہونے والا۔ عام (أسحت) و أرض (سحتاء) بے نباتات والا اسل یا زمین۔

السحتوت و السحینت۔ کم روغن اور زیادہ پانی والا ستور۔ تھوڑی چیز۔

السحتوت و السحینت۔ پرانا کپڑا۔ السحینتہ۔ سب کچھ ہمالے جانے والا بادل۔ سج سحایت۔

سحتوت الجوف و المغدة: آسورہ نہ ہونے والا۔ زیادہ بدبشمی ہونے والا۔ (ضد) سحجة (ف) سحجا و سحجة۔ چھیننا۔

السئی بالسئی: کسی چیز کو کسی چیز سے رگڑ کر چھیننا۔ صفت مفعول (سحتوت و سحینج)۔

سحتت الذابة: چھاپا یا کاجلدی پلانا۔ تسحج و انسحج۔ چھلنا۔

السحاج۔ بہت بچھنے والا۔ کہا جاتا ہے "زمن سحاج" بہت سخت زمانہ جو ہر چیز کو چھیل کر رکھ دے۔

السحوج و المسحاج۔ بہت قسم کھانے والی عورت۔

المسحج و المسحاج من الذواب: تیز چلنے والا جانور۔ دشمنوں سے بہت کانٹے والا۔

المسحاج: گلڑی کانٹے کا اوزار۔ زہن و مسحاج: بہت سخت زمانہ جو ہر چیز کو چھیل دے۔

السحد۔ بہت سرکش و نافرمان۔ سحوة (ف) سحوا۔ دھوکا دینا۔ جاؤ کرنا۔ فریقت کرنا۔ ع عن کذا: پھیرنا۔ دور کرنا۔

سحر عن الأمر: کسی معاملہ سے دور ہونا۔ و سحر الفضة: چاندی پر سونے کا جھول چڑھانا۔

السحيف. بھل کی آواز پینے کے وقت۔
دودھ روکنے کی آواز۔

السحيفة. سخت بارش جو ہر چیز کو ہمالے
جائے۔ چربی جو پھیل کر جدا کی جائے۔ ج
سحائف۔

السحوف. سخت بارش جو ہر چیز کو ہمالے
جائے "نافقة سحوف": بے چربی والی اونٹنی۔
اونٹنی جس کے تھن لیے ہوں اور تھن کے
سوراخ تنگ ہوں۔ جمل انفاقة سحوف:
زیادہ چربی والا اونٹ یا اونٹنی۔

مسحف. الحقیقة: زمین پر سانپ کے چلنے
کے نشانات۔

المسحفة. گوشت چھینے اور چڑا کر پینے کا
آلہ۔

زحل (مسحوف) سل کی بیماری والا۔
أرض (مسحفة) باریک گھاس والی زمین۔

مسحفة (ف) مسحفا۔ بت زیادہ کونا۔ باریک
کرنا۔ ہلاک کرنا۔ الريح الارض: ہوا کا تیز

چلنے کی وجہ سے صاف کر دینا۔ الواس: سر
مونڈنا۔ الشق الشديد: نرم کرنا۔

القملة: جوں کو مار ڈالنا۔ الثوب: کپڑے
کا پورا بوسیدہ کرنا۔ العين ومعها: آنکھ کا

آنسو برمانا۔ کہا جاتا ہے "سحقه الله" اللہ نے
اس کو دور کر دیا۔

سحق (س) وسحق (ک) سحقا۔ دور
ہونا۔

سحق (ک) سحقفة۔ الثوب: کپڑے کا
بوسیدہ ہونا۔ پراٹا ہونا۔ النخلة: درخت

خرما کا طویل ہونا۔ صفت (سحقوق) سحق
سحق۔ بت باریک پڑنا۔

مسحفة (ف) سحقا۔ الشعر عن الجليل:
پکڑے کا بوسیدہ ہونا۔ باوجود نئے ہونے کے

رواں گر جانا۔ خف البعير: گھس جانا۔
الضنغ دودھ خشک ہو جانا اور تھن کا پیرت سے

لگ جانا۔

السحق۔ باریک ہونا۔ القلب: دل کا
شکستہ ہونا۔ الشق: کشادہ ہونا۔ دور ہونا

الطوبع: باوجود نئے ہونے کے رواں گر

الخييل: بڑے ہیٹ والا گھوڑا۔
السحار: جادوگر۔

الساجر۔ فا۔ عام۔ ج سحرة و سحاز و
سحاز و ساجوزون۔ مؤنث الساجرة۔ ج
ساجرات و سواجر۔

السؤخر: بید کار رخت۔
السحار والاسحاز والاسحارة۔ ایک قسم

کی نباتات جو مویشیوں کو مونا کرتی ہے۔
المسحور۔ وہ شخص جس کا پیچھڑا اور کر دیا گیا

ہو۔ خوف دلایا ہوا۔ جادو کیا ہوا۔ کھوکھلا۔
المسحورة۔ مغم۔ خراب کیا ہوا کھانا۔ کثرت

بارش یا کسی اور وجہ سے خراب جگہ۔ عنز
مسحورة: کم دودھ والی بھیڑ۔ أرض
مسحورة: بجز زمین۔

السحارة۔ ایک قسم کی چیز جس سے بچے کھیلنے
ہیں۔

تسحیح۔ الماء پانی کا اور سے برتا۔
التسحیح والتسحیحة۔ گھر کا مہن

(التسحیح والتسحیح) من المطر: بت
سخت بارش جو زمین کے ٹکڑے پتھر وغیرہ کو ہمالے

جائے۔

سحط (ف) سحقطا و سحقفا۔ جلدی زنج
کرنا۔ ه الطعام: پھندا لگانا۔ سحق

الشراب: پانی لگانا۔ السحط: بکری کے پتے
کوماں کے ساتھ چھوڑنا۔

السحط۔ من یدہ: ہاتھ سے پھیل کر گرنا
عن التخلية ونحوها۔ لٹکانا اور بغیر ہاتھ سے

پکڑے ہوئے اترنا۔
المسحط۔ طق۔

شاة (سحیطو سحقطة) زنج کی ہوئی بکری۔
سحف (ف) سحقا۔ الشعر عن الجليل:

بال کو کھل سے زائل کرنا۔ الواس: سر
مونڈنا۔ (وأسحفت) الريح السحاب:

ہوا کا بازوں کو اڑا دینا۔ وأسحفت سحقفة: پیٹھ
کی چربی کو پینا۔

السحفة۔ پیٹھ کے اوپر کی چربی۔ ج سحقاف
و سحقف۔

السحاف۔ سل کی بیماری۔

سحرة (ف) سحقا۔ پیچھڑے پر مارنا۔
صفت مفعول (مسحور و مسحور) —

المطر الطين: خراب کرنا۔
سحور (س) سحقا۔ صبح سویرے آنا۔ ذول

وغیرہ کھینچنے سے پیچھڑے کا کٹ جانا۔ صفت
(مسحور و مسحور)

مسحورہ۔ جادو کرنا۔ سحری دینا یا کھانا۔ غذا دینا۔
مشغول کرنا۔

أسحور۔ صبح کے وقت جانا۔
تسحور۔ سحری کھانا۔

إسحور۔ صبح کے وقت میں داخل ہونا یا صبح
کے وقت لکنا۔ الدهك: مرغ کا شیج کے وقت

ہانگ دینا۔
السحور۔ مہ۔ وہ چیز جس کا ماخذ لطیف و دقیق

ہو۔ باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا۔ جادو۔
و حوکا۔ حیلہ۔ نسا۔ ہر وہ چیز جس کے حاصل کرنے

میں شیطانی تقرب کی ضرورت ہو۔ ج اسحار و
سحور۔ السحور الکلامی: کلام کی لطافت جو

جادو کا کام کرے اور خیالات کو لپٹ دے اور اسی
سے ہے "ان من التبان لسحورا"

السحور۔ صبح سے کچھ پہلے۔ السحور
الأعلى: صبح کا زب۔ والسحور الاخر: صبح

صالح۔ السحور: ہر چیز کا تارہ۔ ج اسحار۔ ج
السحور والسحور والسحور۔ پیچھڑا۔ ج

سحور و سحور و اسحار اور کہا جاتا ہے
"انقطع منه سحری" میں اس سے ناامید

ہو گیا۔ و "انفص سحورہ" وہ بزدل ہو گیا۔ گویا
خوف کی وجہ سے اس کا پیچھڑا پھول گیا۔ و

"فات فلان بین سحری و سحری" فلاں کا
انتقال میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے ہوا۔

السحری و السحریة۔ صبح سے کچھ پہلے۔
السحرة۔ صبح کا زب۔

السحارة۔ پیچھڑا۔ من الشاة: بکری کے
پیچھڑے اور زرخرہ کا وہ حصہ جس کو قصاب

کٹ لیتا ہے۔
السحور۔ سحری۔ وہ کھانا جو صبح سے کچھ پہلے

کھایا جائے۔
السحیر۔ پیٹ کی بیماری والا۔ من

من

جانا۔

الدُّو: ڈول کا خالی ہونا۔

السُّحْق: ہمہ بوسیدہ کپڑا۔ کہا جاتا ہے "ثوبٌ سَحِقٌ وَسَحِقٌ نوب" باعتبار وصف یا اضافت کے۔ نیز کہا جاتا ہے "سَحِقٌ دَرَهْمٌ" کوٹا درہم، سَحِقٌ سَحِقٌ۔

السُّحْقُ وَالسُّحْقُ: دوری۔ کہا جاتا ہے "سُحْقَالَةٌ" یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔

السُّحْقِيَّةُ: دور۔ مِسْكٌ سَحِقِيَّةٌ: باریک ہسی ہوئی مہک۔

السُّحُوقُ: لہبا لہبا مرد۔

السُّحْقَالَةُ: بہت پیسے والا۔ اِمْرَاةٌ سَحْقَالَةٌ: عورت جس کی پستانیں لمبی ہوں اور لنگ آئی ہوں۔

السُّحِقَّةُ: سَحِقٌ کا مؤنث۔ زور کی بارش جو ہرج و مرج کو برمالے جائے۔ سَحِقَاتٌ۔

وَع (منسحق) کے ہوئے آنسو۔ سَحِقٌ مَسْحِيقٌ (نار) کہا جاتا ہے "حَزَتْ مِنْ عَيْنِهِ مَسْحِيقٌ الدُّمُوعُ" اس کی آنکھ سے آنسوؤں کی قطاریں بہ رہیں۔

الْأَسْحَقُ: دور۔

الْمِسْحَقُ: جس سے پیسا جائے۔

مَسْحَقٌ (ف) مَسْحَقًا: پینا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔

مَسْحَلٌ (ف) مَسْحَلًا: سحی۔ چیلنا۔ پینا۔ کوٹنا۔ الرَّجُلُ مَسْحَلٌ: گال رینا۔ ملامت کرنا۔

الْفَرِيمُ مَا تَهْ دَرَهْمٌ: قرض خواہ کو نقد ادا کرنا۔

۵۰ ماہ سوط: بارنا۔ الثوب: کپڑے دھاگے سے بنا۔ الحَبْلُ: رستی کو اکراہٹا۔

مَسْحَلَتْ مَسْحَلًا وَسُحِقًا: العین: رونا۔ مَسْحَلٌ (ض) مَسْحَلًا وَسُحِقًا: البُهْلُ: ٹھنڈا۔

مَسْحَلَةٌ: ایک دوسرے کو گلی رینا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ مَسْحَلٌ الْقَوْمِ: بآؤ لادھم: سائل پرانا۔

أَسْحَلَهُ: گلی خور دھانا۔ مَسْحَلٌ: چیلنا۔ پینا۔ باریک ہونا۔ بِالْكَلَامِ:

مَنَسَّكَو جَارِي كَرْنَا: اِنْسَحَلَتِ الذَّرَاهِمُ: چمکدار ہونا۔

السُّحْلُ: مہ۔ - السُّحْلُ: سَحْلٌ وَسُحْلٌ وَسُحْلٌ وَسُحْلٌ: سَحْلٌ وَسُحْلٌ: کپڑا جس کا سوت کچا ہو۔ اَکْرَمِي عِثِي: ہوئی رستی۔

السَّاحِلُ: فہ۔ سمندر کا کنارہ۔ سَحْلٌ وَسُحْلٌ۔

السُّحَالُ: لگام۔

السُّحْلَةُ: چھوٹا خرگوش جو اپنی ماں سے جدا ہو گیا ہو۔

السُّحَالَةُ: ہانڈی سونے کا بڑا درہ۔ گیسوں جو کی بھوسی۔ ناکارہ لوگ۔

الْإِسْحَالُ: ایک درخت کا نام جس کی مسواکیں بنائی جاتی ہیں۔

الْأَسْحَالُ: پانی کی ٹالیاں۔

الْمِسْحَلُ: سنگ تراشی کا اوزار۔ ریتی۔ زبان۔ لگام۔ بلخ خلیب۔ ہمار۔ چست۔ ساقی۔ جلاد۔ حدود کو قائم کرنے والا۔ پختہ ارادہ۔ اَکْرَمِي عِثِي: ہوئی رستی۔ گمراہی۔ کہا جاتا ہے "وَكَبْ فَلَانٌ مِسْحَلَةٌ" فلاں نے گمراہی اختیار کی۔

الْمِسْحَلُ: شیطان۔ داڑھی کی ایک جانب چھپلی۔ توشہ دان کا مہ۔ بہت پانی والا۔ پر پالہ۔ بہت بارش۔ خمیس آدمی۔ سخاوت و فیاضی۔ گدھے کا پختہ۔ گورخر۔ ماہر قرآن۔ روٹی کا پاکیزہ کپڑا۔ سَحْلٌ وَسُحْلٌ۔

السُّحَالُ وَالسُّحَالُ: بہت سہل۔

شَابٌ مَسْحَلَانٌ وَمَسْحَلَانِيْنٌ: لہبا لہبا سیدھے بالوں والا جوان۔ مؤنثٌ مَسْحَلَانَةٌ وَ مَسْحَلَانِيَّةٌ۔

الْمَسْحُوقُ: مہ۔ چھوٹا۔ حقیر۔ ہموار کشادہ جگہ۔

رَجُلٌ (إِسْحَالِيْنٌ) اللّٰحِيَّةُ: لمبی داڑھی والا مرد۔ اِمْرَاةٌ (إِسْحَالِيَّةٌ) لِمَجِي قَدِ وَابِي خُوْبَسُوْرَتِ عُوْرَتِ۔

السُّحْلَالُ: بڑے بہت والا۔ السُّحْلُوْتُ: برباک عورت۔

سَحْمٌ (س) وَسَحْمٌ (ك) مَسْحَمًا: کلا ہونا۔ صَفْتُ (أَسْحَمٌ) مَوْنِثٌ مَسْحَمًا: سَحْمٌ۔

سَحْمٌ: وَجْهَةٌ: چہرہ کالا کرنا۔

أَسْحَمَتِ السَّمَاءُ: برساتا۔

السَّحَامُ وَالسَّحَامُ وَالسَّحْمَةُ: سیاہی۔

الْأَسْحَمُ: سیبگ۔ بادل۔ سرپستان۔ شراب کی مہک۔ ہفت۔ خون جس میں قسم کھانے والے اپنے ہاتھوں کو بوڑے تھے۔

السَّحْمُ: لوبا () وَالسَّحْمِيْنُ وَالْأَسْحَمَانُ: ایک درخت کا نام۔

السَّحْمَةُ: لوبہ کا گلا۔

السَّحْمُ: لوبار کے پتھوڑے۔

سَحْنٌ (ف) مَسْحَانًا: المَحْوُ: چھرتوڑنا۔ السَّحْنِيَّةُ: گدڑی کو گڑ کر زم و چمکدار بنانا۔ السَّحْنُ: باریک پینا۔

سَاخَنَهُ: ملاقات کرنا۔ مَحْرَمٌ مِلَّابٌ سَاخَنَهُ: مَحْرَمٌ مِلَّابٌ سے رہنا۔ سَاخَنَةُ السَّحْنِ: کسی چیز میں شرکت کرنا۔ وَوَسَخَنَهُ: کسی کے چہرہ مرہ رنگ و روغن کو دیکھنا۔

السَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ: بے رنگ کمال کی تالی۔

السَّخْنَةُ: چھروں کو توڑنے کا اوزار۔ سَحْلَانٌ۔

سَخَاةٌ مَسْحَاةٌ وَسُحُوٌّ وَسُحُوٌّ: مَسْحَاةٌ مَسْحَاةٌ۔

سَخَاةٌ مَسْحَاةٌ وَسُحُوٌّ وَسُحُوٌّ: مَسْحَاةٌ مَسْحَاةٌ۔

السَّحْرُ: موزنا () وَأَسْحَى: اسْحَاءٌ وَ مَسْحَى: تَسْحِيَّةٌ۔

الْكِتَابُ: خط پر کسی چیز سے مراد کرنا۔

السَّحْرُ: موزنا۔ مَسْحَى: مَسْحَى: شرم کرنا۔

السَّحَاءُ: مِسْحَاةٌ مَسْحَاةٌ: خط پر مر کرنے کی چیز۔ وَوَحْدَةٌ مَسْحَاةٌ: مَسْحَاةٌ: دماغ کی جملی۔

سَحْحَايَا۔

السَّحَاءُ: میدان۔ جانب۔ ایک قسم کی خاردار گھاس۔ چمکنا۔ سَحْحَايَا: مَسْحَاةٌ مَسْحَاةٌ۔

السَّحْحَايَةُ: بادل کا گلا۔ دماغ کی جملی۔ کسی چیز کا بارہ۔ پیلے بنانے کی چیز۔

السَّحْحَايَةُ: سیلاب۔ زور کی بارش۔ السَّحْحَاءُ: چیلنے والے۔

طور پر بارنا اور اسی سے ہے "مَا أَسْحَنَ حَضْرَةَ"
اس کی بارگاہ قدر تکلیف دہ ہے۔

سَخِنَتْ (س) سَخِنًا وَسُخُونًا وَسُخْنَةً
عَيْنُهُ: آنکھ کا تکلیف سے جل اٹھنا۔

أَسْحَنَ وَسَخِنَ وَالشَّىءُ: گرم کرنا۔ کہا جاتا
ہے "أَسْحَنَ عَيْنَهُ وَيَعِينُهُ" یعنی اس نے اسے
رلا دیا۔

السَّخْنُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ
وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ: گرمی۔ بخار۔ کہا جاتا
ہے "عَلَيْكَ بِالْأَمْرِ عِنْدَ سُخْنَةٍ" معاملہ کو اس
کے ابتداء ہی میں ٹھنڈا ہونے سے پہلے سنبھال
لو۔

السُّخْنُ وَالسُّخْنَانُ وَالسُّخْنَانُ
السُّخْنَانُ: گرم۔

مَاءٌ سَيْخِنٌ: گرم پانی۔ حَزَبٌ سَيْخِنٌ:
تکلیف دہ مار۔ السَّيخِنُ: کدال۔ پیلچہ۔ قھاریوں
کی چھری۔ بل کلا سے۔ ج سَخَّيْنٌ۔

السَّخِينُ: نا۔ گرم۔ ج سَخَّانٌ: مؤنث
سَخِينَةٌ: کہا جاتا ہے "لَيْلَةٌ سَخِينَةٌ" گرم رات۔
السَّخَائِينُ: گرم۔ کہا جاتا ہے "مَاءٌ
سَخَائِينٌ" گرم پانی (کلام عرب میں مقابل کا
وزن اس کے علاوہ کوئی نہیں)۔

السَّخِينُ: ہر وہ چیز جو گرم ہونے لگتی۔
السَّخِينَةُ: ایک گھم کا کمانا جو آئے سے تیار کیا
جاتا ہے۔ گرم کمانا۔

السَّخِينُ: ہانڈیاں۔ موزے۔ چادر کی مانند
ایک کپڑا جس کو علماء سر ڈالتے ہیں۔ (جمع ہے
جس کا واحد نہیں اور یا سَخِينٌ یا سَخِينَانٌ واحد
ہے)۔

السَّخِينَةُ: ہانڈی۔ ج سَخَّيْنٌ۔
سَخَّيْنٌ وَسَخَّيْنٌ وَسَخَّيْنٌ وَسَخَّيْنٌ
يَسْخُونُ سَخَاً وَسَخَاً وَسَخَاً وَسَخَاً وَسَخَاً
سُخُونَةً: فیاض ہونا۔ سخی ہونا۔ کہا جاتا ہے
"سَخِيْتُ نَفْسِي وَنَفْسِي عَنِ الشَّيْءِ" یعنی
میں نے اسے چھوڑ دیا اور میرے نفس کا میلان
اوپر نہیں ہوا۔

سَخَا النَّازُ يَسْخُوها سَخَاً وَسَخَاها
سَخَاً وَسَخَاً: راکھ نکال کر آگ جلانا۔

الْقُدْرُ: ہانڈی کے نیچے آگ جلانا۔ الزُّجْلُ:
حرکت سے سکون اختیار کرنا۔

تَسَاخَى وَتَسَاخَى: بگلف فیاض ہونا۔
السَّخَاوَةُ: فیاض۔ بخشش۔

السَّخَاةُ: ایک قسم کی سبزی۔ ج سَخَّاءُ۔
السَّخِيَّةُ: فیاض۔ ج أَسْخِيَاءٌ وَسَخْوَاءٌ
مؤنث سَخِيَّةٌ۔ ج سَخَائِيَةٌ وَسَخِيَّاتٌ۔

الْأَرْضُ (السَّخْوَاءُ) كَشَاةُ زَمِـنٍ: ج
سُخَاوِيٌّ وَسَخَاوِيٌّ۔
أَرْضٌ (سَخَاوِيَّةٌ) زَمِـنٍ كَشَاةُ زَمِـنٍ: ج
سَخَاوِيٌّ۔

مَسْخِيٌّ: التار: وہ جگہ جو ہانڈی کے نیچے کشارہ
کی جائے تاکہ آگ جلنے میں آسانی ہو۔
المَسْخَاةُ: چھپنی۔ آگ کی کربلی۔

سَدٌّ (س) سَدًّا: الاتانہ: برتن بند کرنا۔
الْفَلَقَةُ: رخند درست کرنا۔ الثَّيَابُ: دروازہ
بند کرنا۔

سَدٌّ (س) سَدًّا وَسَدًّا وَسَدًّا: درست ہونا۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ يَسُدُّ قَوْلَهُ" وہ ٹھیک بات کہتا ہے
و "قُلْتُ لَهُ سَدًّا إِذْ أَمِنَ الْقَوْلُ وَسَدًّا" میں نے
اس سے ٹھیک بات کہی۔ الشَّيْءُ: سیدھا ہونا۔
سَدَّدَ: الوضوح: سیدھا کرنا۔ ہ: راہ راست
کی طرف رہنمائی کرنا۔

أَسَدَّ: الشَّيْءُ: سیدھا ہونا۔ الزُّجْلُ: راہ
راست کو پھینچنا یا طلب کرنا۔

تَسَدَّدَ: سیدھا ہونا۔ الشَّيْءُ: درست
ہونا۔

إِنْسَدَّدُوا سَدًّا إِسْدَادًا وَاسْتَدَادُوا سَدًّا
إِسْدَادًا: درست ہونا۔

السَّدُّ وَالسَّدُّ: ج أَسْدَادٌ: دو چیزوں کے
درمیان آڑ۔ پھاڑ۔ کہا جاتا ہے "حَضْرَتٌ عَلَيْهِ
الْأَرْضُ بِالْأَسْدَادِ" یعنی اس کے اوپر راستے بند
ہو گئے۔ و السَّدُّ: ج أَسْدَادٌ: عیب مثل اندھے پن
کے۔ و السَّدُّ: ج سُدُودٌ: کالا بادل جس نے آفت کو
گھیر لیا ہو اور کہا جاتا ہے "جَزَاؤُ سَدًّا" یعنی بڑی
دل۔ و السَّدُّ: ج سِدْدَةٌ: داوی جس میں پتھر اور
پتھان ہوں اور پانی اس میں مدت تک رہے۔
داوی۔ مسابیحہ۔

كَلَامٌ (سَدٌّ) مَمَّجٌ وَدَرَسْتُ كَلَامَ۔

السَّدُّ: مہ۔ درستی۔ جو درست ہو۔

السَّدَادُ: مہ۔ درستی اور راستی۔ ہدایت۔

السِّدَادُ: ڈھلکا۔ دودھ جو ٹھن کے سوراخ
میں خشک ہو جائے اور دودھ کی نالی کو بند کر دے۔
السِّدَادَةُ: ڈھلکا۔

السِّدَادُ: ناک کی بیماری جس کی وجہ سے
سانس لینی دشوار ہو۔

رَجُلٌ (سَدَادٌ) رَاهِ رَاسْتٍ پَرَبْنِ وَالْأَمْرِ۔

السَّدَّةُ: دروازہ۔ برآمدہ۔ بیٹھے کی جگہ جیسے
منبر۔ ناک کی بیماری جس کی وجہ سے سانس لینی
دشوار ہو۔ ج سَدَّدَ۔

عَيْنٌ (سَادَّةٌ) أَجْمِي طَرِحَتْ دَكِيمَةً وَدَكِيمَةً وَدَكِيمَةً
ج سَدَّدَ۔

الْأَسْدُ: ج سَدَّدٌ (السَّدِيدُ) ٹھیک درست۔
حق کا تصدیق کرنے والا۔

الْمَسَدُّ: بند کرنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "سَدُّ
مَسَدَّةٌ" یعنی قائم مقام۔

سَدَجٌ (ن) سَدَجًا: بِالشَّيْءِ: گمان کرنا۔
و تَسَدَّجٌ: جھوٹ بولنا۔ جھوٹی باتیں گھڑنا۔
صفت (سَدَجٌ)۔

إِنْسَدَجَ: اونڈھا کرنا۔

سَدْحَةٌ (ف) سَدْحًا: زنج کر کے زمین پر
پھیلانا۔ بچھاڑنا۔ النَّاقَةُ: اونٹنی کو بٹھانا
۔ الْقَرْيَةُ: ملک بھرنا۔ سَدْحٌ بِالْمَكَانِ:

اقامت کرنا (سَدْحًا وَسَدْحًا) قَلَّ: کرنا۔

إِنْسَدَحَ: چت لیت کرنا گھٹیں پھیلانا۔

السَّادِحُ: قا۔ ملدار۔ صاحب فرامی و ارزانی۔
مؤنث سَادِحَةٌ: السَّادِحَةُ: گھٹا نوپ بادل۔

السَّدِيحُ وَالْمَسْدُوحُ: چت لینا ہوا۔

إِنْسَدَحَ: پھیلانا۔

سَدْرٌ (ن) ض) سَدْرًا وَسُدْرًا: الشَّعْرُ: بال
لٹکانا۔ السُّدْبُ: کپڑا بچھاڑنا۔ لہا لٹکانا۔

الزُّجْلُ فِي الْبِلَادِ: جا کر واپس نہ آنا۔

سَدِيرٌ (س) سَدِيرًا وَسَدِيرًا: حیران ہونا۔
لا پروا ہونا۔ السَّدِيرُ: شہرت گری کی وجہ سے
چندھا جانا۔ صفت (سَدِيرٌ) کہا جاتا ہے "تَكَلَّمَ
سَدِيرًا" اس نے بغیر تحقیق کے گفتگو کی۔

إِسْدَرُ - الشَّعْرُ: بال لثقا اور کہا جاتا ہے
"إِسْدَرٌ يَرْتَضُ" وہ آہستہ دوڑا۔ نیچے آرتا اور
پیشہ چلتا۔

تَسْدَرُ - بِقُوْبِهِ: اوڑھ لیتا۔

السِّدْرُ - بَير کا درخت - ج سَدُوْر۔

السِّدْرَةُ - بَير کا درخت - ج سِيدْرَات۔ و
سِيدْرَات و سِيدْرَات و سِيدْر۔ و سِيدْرَةُ
الْمُنْتَهَى۔ ساتویں آسمان میں عرش اعظم کی
دائیں جانب بَير کا درخت جو لوگوں کے اعمال کے
لیے ختم ہے اور ملائکہ وغیرہ کے علم کی امتداد میں
تک ہے۔

السِّدْرُ - حِمران - سَمْدَر - نَاقَةٌ سِيدْرَةٌ: بوزھی
اونٹنی۔

السِّدْرُ - پردہ کی مانند جو خیمہ کے عرض میں
لگایا جاتا ہے۔

السِّدْرُ - بَير کے پتوں کا بیچنے والا۔

السِّدْرُ - تازہ گھاس۔ جہ کے اطراف میں
ایک دریا کا نام۔ شاہ نعمان کے ایک محل کا نام۔
یمن میں ایک جگہ کا نام جہاں سے یمنی چادریں
آتی تھیں - سِيدْرُ التَّخْلِيلِ: وہ جگہ جہاں درخت
خرابہ سے ہوں۔

الْأَسْدَرَانِ - آٹھ کی دو رگیں۔ دونوں
موڑھے۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ يَضْرِبُ أَسْدَرِيَّةً"
وہ بے حصول مقصود خالی ہاتھ آیا۔

سَدَسٌ (ض) سَدَسًا - القَوْمُ: جھٹا ہونا!

سَدَسٌ (ن) سَدَسًا - القَوْمُ: جھٹا ہونا۔

سَدَسٌ - الشَّيْءُ: چھ پہل بنانا۔

أَسْدَسٌ - القَوْمُ: چھ ہونا۔ چھٹے روز گھٹ پر
آنے والے اونٹوں والا ہونا _____ التَّجِيْرُ:
آٹھویں سال میں دانت گراتا۔

السِّدْسُ - اونٹ کے لیے چھ روز پانی پینے کی
باری۔ سست کی اصل سدس ہے۔

السَّدْسُ و السَّدْسُ - جھٹا ہونا۔ ج سَدَسًا
اور کہا جاتا ہے "هُوَ يَضْرِبُ أَحْمَاسًا
لِإِسْدَاسٍ" وہ کمزور بیک کی کوشش کرتا ہے۔

السَّدْسُ - آٹھویں سال کی عمر کا اونٹ۔

السَّدَاسُ - فَا - چھٹا۔ مَوْتٌ - سَدَاسِيَّةٌ۔

السَّدَاسِيَّةُ - چھ سے مرکب۔ چھ حرفوں والا

کلمہ جیسے زَنْجِ تَبَل - کہا جاتا ہے جَاءَ وَ (إِسْدَاسٍ)
وہ لوگ چھ چھ ہو کر آئے اور یہ کلمہ عدل اور
وصفیت کی وجہ سے غیر مشرف ہے۔

السَّدُوْسُ و السَّدُوْسُ - سبز رنگ کی چادر۔
السَّدُوْسُ - چراغ کی سیاہی۔

السَّدِيْسُ - جھٹا ہونا۔ ج سَدَسُ - چھ سے
مرکب۔ آٹھویں سال کی عمر کا اونٹ۔ چھ سال والی
بکری۔

السَّدَسُ - شش پہل۔ وہ سطح جو چھ باہم برابر
ضلعوں سے گھری ہو۔ السَّدَسُ: رِوَالُ الرَّجُلِ
میں چھ کارتوس ہوتے ہیں۔

السَّدْعَةُ (ف) سَدَعًا: زنج کر کے پھیلانا _____
السَّيِّءُ بِالشَّيْءِ: ٹکراتا۔

السَّدْعُ - رَنْج و اذیت پہنچایا جاتا۔

السَّدْعَةُ - رَنْج و اذیت۔

السَّدْعُ - اپنے ارادہ پر چلنے والا۔ ہادی رہنما۔
سَدَفٌ (ض) سَدَفًا - القَوْمُ: تاریکی میں داخل
ہونا _____ العَجَبَاتُ: پردہ لگانا۔ صفت مضوی
(مَسْدُوْفٌ)

أَسْدَفٌ - سونا۔ بھوک یا بڑھاپے کی وجہ سے نگاہ
کا دھندلا ہونا _____ القَوْمُ: تاریکی میں داخل ہونا

_____ اللَّيْلُ: تاریک ہونا۔ صفت (أَسْدَفٌ)
مَوْتٌ سَدَفًا: ج سَدَفٌ _____ الفَجْرُ: روشن
ہونا _____ السَّبْرُ: پردہ اٹھانا _____ السَّرَاةُ
الْقِتَاعُ: برقعہ ڈالنا۔ أَسْدَفٌ عَنِ كَذَا: الگ

ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَسْدَفُ النَّبَابِ" یعنی دروازہ
کھول دو یا دروازہ سے ہٹ جاؤ تاکہ گھر میں
روشنی ہو سکے۔
سَدَفَهُ - کھڑے کھڑے کرنا۔

السَّدَفُ - تاریکی۔ روشنی (ضد) بھیڑ۔ ج
أَسْدَافٌ۔

السَّدَفُ - وجود جو ڈور سے دکھائی دے۔ ج
سَدُوْفٌ۔

السَّدْفَةُ و السَّدْفَةُ - تاریکی۔ روشنی۔ (ضد)
السَّدْفَةُ: دروازہ۔ دروازے کا چھپر جو اس کو
بارش سے بچائے۔

السَّدِيْفُ - کوبان کی چربی کا ایک ٹکڑا۔ ج۔

سَدَافٌ و سَدَافِيْفٌ۔

السِّدَاقَةُ - پردہ۔

السَّدَقُ و السَّدُوْقُ - سَدَق و سَدُوْقُ کی
تقیف ہے۔

السِّدَاقُ - ایک تہ دار درخت کا نام۔ جس کی
چھال تیز چلتی ہے اور اس کی راکھ سے کتاب کے
دھاکے کو سفید کرتے ہیں۔

سَدَقٌ (س) سَدَقًا و سَدَقًا - بِالْأَمْرِ: لازم
ہونا۔ چٹنا۔ صفت (سَدَقٌ) یہ کہا جاتا ہے "هُوَ
سَدَقٌ بِالرُّوْحِ" بہت تیز مارنے والا ہے۔

سَدَقٌ (ن ض) سَدَقًا و سَدَقًا - الشَّعْرُ أَوْ
النَّوْبُ: بال یا کپڑا لگانا۔ سَدَقٌ النَّوْبُ: کپڑا
پھاڑنا _____ فِي النَّبَاذِ: جانا۔

سَدَقٌ (س) سَدَقًا - خَلْقَةٌ: جھکاؤ والا ہونا۔

تَسَدَقٌ و اِنْسَدَقٌ - لگانا۔

سَدَقٌ - الرَّجُلُ: لمبی مونچھوں والا ہونا۔

السِّدَلُ - ہار جو سینہ تک لمبی ہو۔

(_____ و السِّدَلُ) پردہ۔ ج اَسْدَالٌ و اَسْدَلٌ
و سَدَوَلٌ۔ کہا جاتا ہے اَزْخَعِي اللَّيْلُ سَدَوَلَهُ۔
رات نے اپنے پردے لٹکانے یعنی تاریکی چھائی۔

السِّدَلُ - جھکاؤ۔ میلان۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ
سَدَلٌ إِلَى جَانِبٍ" اس کے اندر ایک جانب
میلان ہے۔

السِّدَلُ - بوردہ پر چڑھ لایا جائے۔ پاکی وغیرہ کا
پردہ۔ ج سَدَلٌ و اَسْدَالٌ و سَدَائِلُ۔

شَعْرٌ (مَسْدَقٌ) بہت لمبے بال۔

السَّدَوَلُ - موچھ۔

سَدَمٌ (ن) سَدَمًا - النَّبَابُ: دروازہ بند کرنا۔
بھیڑنا۔

سَدَمٌ (س) سَدَمًا - ندامت کے ساتھ عملیں
ہونا۔ غم کے ساتھ غضبناک ہونا _____ بِالشَّيْءِ:
بہت خواہش مند ہونا۔ حریف ہونا _____ الصَّاءُ:
پانی کا بہت دنوں کی وجہ سے ختم ہونا اور کالی سے
ڈھکا جانا۔

سَدَمٌ - الصَّاءُ طَوْلُ عَهْدِهِ: مختیر کرنا۔ ماءً
(سَدَمٌ و سَدَمٌ و سَدَمٌ) کالی سے ڈھکا ہوا
یا زیادہ دنوں کی وجہ سے مختیر پانی جمع کے لیے کہا
جاتا ہے۔

وَيَا سَدَمٌ و اَسْدَامٌ و سَدَامٌ - رَجُلٌ سَدِمٌ:
مستحق دقت والا۔

وَيَا سَدَمٌ و اَسْدَامٌ و سَدَامٌ - رَجُلٌ سَدِمٌ:
مستحق دقت والا۔

بچے کا مال کاٹنا۔ فلانا: پھولوں کا گلہ ست
دے کر مبارکباد دینا۔

سز (س) سزاً ناف میں درد ہونا۔

سز سزوزا: خوش ہونا۔ صفت (سزوزون)
الصبی: ولادت کے وقت نال کاٹنا۔

أسزہ اسزوا: خوش کرنا۔ أسزہ السز: ہمید
چھپانا۔ ہمید ظاہر کرنا (ضد)۔ الیہ یکذا: چپکے
سے بیان کرنا۔ الیہ المودة و بالمودة:
اپنی دوستی کو پھیلانا۔

سزوزة: خوش کرنا۔ سزوزة سزویة: لوٹزی سے
شادی کرنا۔ اس میں ایک لغت سزوا بھی ہے۔
سازة: پوشیدہ بات کرنا۔ کان میں بات کرنا۔

تسزوز: لوٹزی بنانا۔ ایک لغت اس میں
تسزوی بھی ہے جیسے تظنن میں تظنی۔
القوب: کپڑے کا بیٹنا۔

تساز: القوب: باہم سرگوشی کرنا اور ایک
دوسرے کے ہمید پر مطلع ہونا۔ کہا جاتا ہے
"تساز زیدانی ماتکوة" یعنی جس سے تم کو
نفرت ہے زید کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔
استسز استسزوا: لوٹزی کو ہم خوابی کے

لیے مخصوص کرنا۔ عنہ: چھپنا۔
القصر: چاند کا ایک دو راتیں پوشیدہ رہنا (یہ
سرار سے ماخوذ ہے)۔ الشی: چھپانے میں
مباہت کرنا۔ الزجل: خوش ہونا۔
الزجل: اپنے ہمید کو کسی سے ظاہر کرنا۔

السز: مع۔ کہا جاتا ہے "زجل بزسز" یعنی کر
کے خوش ہونے والا مرد۔ اور اسی طرح "قوزم
بوزون سزوزن" یعنی کر کے خوش ہونے والے
لوگ۔

السز: ج۔ اسزوا: ہمید: راز۔ کہا جاتا ہے
"صدوز الأوزار فبوز الأسرائ" احرار کے
بیٹے ہمید کے لیے قبر ہیں۔ و "زجل سزوی"
کاموں کو پوشیدہ طور پر کرنے والا مرد۔ و "فلان
سز هذا الأمر فلان" اس امر کا جاننے والا ہے۔

السز: طریقہ۔ وسط۔ وادی کا درمیان۔ خالص
چیز۔ عمدہ و افضل چیز۔ پاک و عمدہ زمین۔ قمری مینہ
کی پہلی رات یا آخری رات یا درمیان مینہ۔
اصل ہر چیز کا جو و مغز۔ ج۔ أسزة جیسے فن کی

سذی۔ القوب (سذیة) تاناٹنا۔

الیہ: احسان کرنا۔ معزوزا: بھلائی کرنا
الارض: نمناک کرنا۔

أسذی اسذاء۔ القوب: تاناٹنا۔ کہا جاتا ہے
"ألجم ما أسذیت" یعنی جس احسان کو تم نے
شروع کیا ہے اسے پورا کرو۔ الیہ: احسان
کرنا۔ الارض: نمناک کرنا۔ بینہما:
اصلاح کرنا۔ الأمر: بیکار چھوڑنا۔

تسذی تسذیا: شئی: سوار ہونا۔ چڑھنا۔
اوپر سے پکڑنا۔ القوب: تاناٹنا۔

السذی: تانا۔ ج۔ أسذیة۔ نمی۔ شہم۔ شہم۔
بھلائی (۔ والسذاء) سز کی بھجور۔

السذاء۔ من القوب: تانا۔ کہا جاتا ہے "ما
انت بلحمة ولا سذاء" یعنی تم سے نہ کچھ نفع
ہے نہ نقصان۔

إبل (سذی و سذی) بیکار چھوڑے ہوئے
اونٹ (واحد و جمع کے لئے) کہا جاتا ہے "ذہب
اکلامہ سذی" اس کی گفتگو لغو و بیکار گئی۔
الأسذی و الأسذی: وہ کپڑا جس کا تانا کیا گیا
ہو۔

المسذاء۔ تاناٹنے کا آلہ۔
السذاب۔ ایک بد بو دار پودہ جس کے پتے متر
کی طرح ہوتے ہیں۔
السذیة۔ ایک قسم کا برتن۔

السذاج۔ سادہ کا معرب۔ ایک قسم کی گھاس جو
بغیر جڑ کے پالی کے اوپر پھلتی ہے۔ تیزبات۔
السذاجة۔ ساوگی۔

السذق۔ سدہ کا معرب۔ ایرانیوں کا ایک جشن
ہے جس میں رات کے وقت صحرا دیباہان میں آگ
جلا یا کرتے تھے۔

السذوق السذاق و السذقان
و السذقان۔ کنگن۔ شکر۔ السذوق: زنجیر کا
حلقہ۔

السذوقی۔ جست۔ چالاک۔ تکبر۔
السذاق و السذوق و السذاق۔ شکر۔
سزوزا (ن) سزوزا و مسزوزا و سزوا سزوی و
تیسزوزا خوش کرنا۔

سزوزا (ن) سزوزا ناف میں نیزہ مارا۔ الصبی:

غضبناک مرد۔

السذم۔ ندامت کے ساتھ غم۔ غم کے ساتھ
غصہ۔

السذمان۔ ندامت کے ساتھ غمگین۔ غم کے
ساتھ غضبناک۔ کہا جاتا ہے "هو سذمان
تذمان"

سذوم۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا گاؤں۔ بعض
سذوم بالذال کہتے ہیں۔

السذیم۔ ج۔ سذام: بہت یاد کرنے والا۔ ج۔
سذم: کراہی باریک کرنا۔

سذن (ن ض) سذنا و سذانة: کعبی بات
خانہ کی خدمت کرنا۔ دربان ہونا۔ صفت (سذان)
ج۔ سذنة کہا جاتا ہے "هو سذان فلان و آذنة"
یعنی فلان کا دربان ہے۔ سذن السبوز: پردہ لگانا۔
السذن و السذن۔ ج۔ سذان۔ و
(السذران) پردہ۔

سذانة۔ الکعبیة: کعبی کی خدمت۔

السذین۔ ج۔ لی۔ اون۔ خون۔ پردہ۔
السذان۔ نمائی (صحیح لفظ سذان ہے)۔

سذایسذ و سذوا۔ سذو۔ سذو۔ سذو الشی: کسی
چیز کی طرف ہاتھ بڑھانا۔ الصبی بالجوز:

اخرت سے کھلنا۔ سذت التافة فی السذی:
کشادہ قدم رکھنا اور کہا جاتا ہے "سذاسذوزة"
اس نے اس کے جیسا قصد کیا اور اس کی بیروی
کی۔

أسذی اسذاء۔ غلاف خرما کا ڈھیلا
پڑنا۔

استذی اسذاء۔ سذو۔ ہاتھ بڑھانا۔
الصبی بالجوز: اخرت سے کھلنا۔
الفرس: پیوند والا ہونا۔

السذای۔ فا۔ چھنا۔ مونث ساذیة۔ ج۔ سذاد۔
الثوق السذای: کشادہ قدم رکھنے والی
اونٹیاں۔

سذی سذی سذی۔ السبوز: غلاف خرما کا
ڈھیلا پڑنا۔ صفت (سذ)۔ الارض: زمین کا
بہت نمناک ہونا۔ الیلبة: بہت شہم والی
ہونا۔ صفت (سذیة)۔

سذی سذی سذی۔ سذیا۔ القوب: تاناٹنا۔

تختے سے کھن لائن ہوتا۔ صفت مسزوب۔
 سزوب۔ الإبل: گروہ گروہ بھیجتا۔
 التي الأشياء: ایک کے بعد ایک دینا
 الخافض: دائیں بائیں کھودنا۔ القزبة: منک
 میں پانی ڈالنا۔ (وَأَسْرَبَ الْمَاءَ مِنَ الْإِنَاءِ:
 برتن سے پانی بہانا۔
 تَسْرَبَ مِنَ الْمَاءِ بِأَنِيٍّ مِنْ بَحْرَانَا۔
 الْوُخْشُ فِي خُجْرِهِ: وحشی جانور کا اپنے
 سوراخ میں داخل ہونا۔
 إِنَسْرَبَ: سوراخ میں داخل ہونا۔
 الْمَاءَ مِنَ الْإِنَاءِ: برتن سے پانی بہانا۔
 السزوب۔ مہ۔ جانور۔ جانب۔ سینہ۔ راستہ۔ کہا
 جاتا ہے "فَلَانٌ مُخْلِئُ السزوب" فلاں پر کوئی
 تنگی نہیں کی گئی ہے۔ "ذَخِلَ لَهُ سزوبه" اس کا
 راستہ چھوڑو۔
 السزوب۔ ہرنوں کا گلہ۔ ہرنوں کی ڈار۔
 عورتوں کی جماعت۔ کھجور کے درختوں کا جھنڈ۔
 راستہ۔ ول۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَاسِعُ
 السزوب" فلاں کشادہ دل ہے۔ ج اسزوب۔
 السزوب۔ وحشی جانور کا سوراخ۔ یہ خانہ۔ ٹال
 جس سے پانی آئے۔ منک سے بننے والا پانی اور کہا
 جاتا ہے "ظرفيق سزوب" چلتا ہوا راستہ۔ ج
 اسزوب۔
 السزوب۔ بننے والا پانی۔ مزادة سزوبية: بننے
 والی منک۔
 السزوبية۔ قریب کا سفر۔ منک کی سیون۔
 السزوبية۔ ہرن، اونٹ وغیرہ کا ریوڑ۔ طریقہ۔
 انجور کی تیل کی قطار۔ کھجور کے درختوں کا جھنڈ۔
 سینہ کے درمیان میں پیٹ تک کے بال۔ ج
 سزوب۔
 السزوب۔ وہ رنگتالی ریت جو دوپہر کے وقت
 دھوپ کی تیزی کی وجہ سے پانی جیسا نظر آتا ہے
 اور اس میں مکلاں اور درختوں کا سایہ عکس کی
 طرح معلوم ہوتا ہے۔ جھوٹ اور کمزور فریب کے
 لیے اس سے مثال دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 أَخْذَعُ مِنَ السزوب" وہ سرب سے زیادہ
 فریبی ہے۔
 السزوب۔ فا۔ کھلم کھلا ظاہر۔ ظَلِيْبَةٌ صَارِيْبَةٌ:

لوگوں کا خوش حالی و بد حالی میں دوست ہے۔
 شکر یہ والی زمین۔ أَرْضٌ سزوباء: عمدہ زمین۔
 السزوباء: بخوف ٹال۔
 السزوب۔ پھیلی یا پیشانی کے خطوط۔ کبیرس۔ ج
 امیرۃ۔ السزوب۔ قمری مینے کی آخری رات۔
 السزوب۔ خالص نسب۔ سزوب الشہر: قمری
 مینے کی آخری رات۔ سزوب الوادی: وادی کی
 عمدہ جگہ۔
 السزوباء۔ خالص۔ نسب۔ وادی کا درمیان۔
 سزوباء الشمس: عمدہ خالص۔ ج سزوب۔
 السزوباء: خلوص۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سزوبِينُ
 السزوباء" وہ خالص ہے جس کا خالص ہونا ظاہر
 ہے۔ و "هُوَ فِي سزوباء مِنْ عَيْشِهِ" وہ اچھی
 زندگی میں ہے۔
 السزوباء۔ خوشی و خوش حالی۔
 الأمزوب۔ کھوکھلا پھتاق۔ مِنَ الرِّجَالِ:
 اچھی۔ زیادہ موٹا۔
 المَسزوب۔ مہ۔ خوشی۔ تازبو کی شاخیں۔ ج
 مستار۔
 المَسزوب۔ ایک جوف دار آگ جس کو بننے والے
 کے کان میں لگا کر بات کرتے ہیں۔
 المَسزوب۔ خوش۔ مؤنث مسزوبۃ۔
 سزوباء (ف) سزوب سزوباء تَسزوباء الْجَزَاءِ
 او السَمَكَةُ او الصَّنْبَةُ: مڈی یا مچھلی یا گہوہ کا انڈا
 دینا۔ المَسزوبۃ: بہت اولاد والی ہونا۔
 امَسزوب السَمَكَةُ: انڈے دینے والی ہونا۔
 السزوب والسزوب والسزوب والسزوب۔ مڈی
 مچھلی گہوہ وغیرہ کا انڈا۔
 السزوب۔ مِنَ السَمَكِ وَخَوِيْهَا: بہت
 انڈے والی۔ ج سزوب سزوب۔
 أَرْضٌ (مَسزوبۃ) مڈیوں والی زمین۔
 سزوب (ن) سزوب۔ الماء: پانی کا جاری ہونا
 الرِّجُلُ: گھٹتے چلے جانا۔
 الإبل: چرنے کے لیے جانا۔ (سزوباً) القزبة:
 منک سینا۔
 سزوب (س) سزوب۔ الإناء: برتن ٹپکانا۔
 الْمَاءَ مِنَ الْإِنَاءِ: برتن سے پانی کا بہنا۔
 سزوب۔ ناک کے نچھتوں میں چاندی کا دھواں

جمع اَقْتَة۔
 السزوب والسزوب۔ پھیلی یا پیشانی کے خطوط۔ ج
 امَسزوب ج امَسزوب۔ الأمَسزوب۔ چہرہ کی خوبیاں۔
 السزوب۔ ٹال جس کو وادی جنائی ولادت کے وقت
 بچے کی ناف سے کاٹی ہے۔ ج امَسزوبۃ: اور سزوب کا
 اطلاق سرور کے معنی پر بھی ہوتا ہے۔
 السزوب والسزوب۔ پھیلی اور پیشانی کے خطوط۔
 ناف کا وہ حصہ جس کو وادی جنائی کے وقت کاٹی
 ہے۔ السزوب: قمری مینے کی آخری رات۔ کسی چیز
 کا کھوکھلا ہونا۔
 السزوبۃ۔ گلہ۔ ست۔
 السزوبۃ۔ ٹال جس کے زریعہ سے جنین کے
 بیٹ میں غذا بنتی ہے۔ ناف۔ ج سزوباء وسزوب
 سزوبۃ الوادی: وادی کا درمیان یا وادی کی
 بحرین جگہ۔ سزوبۃ التبلد: وسط شہر۔ سزوبۃ
 الحوض: حوض کی یہ میں پانی ٹھہرنے کی جگہ۔
 سزوبۃ القزب: ایک ستارہ۔ امَرۃ سزوبۃ: لوگوں
 کو خوش کرنے والی عورت۔
 السزوب۔ خوشی۔
 السزوب۔ خوشی۔ تازبو کی شاخیں۔
 السزوب۔ تخت۔ عموماً تخت شاہی کیلئے بولا جاتا
 ہے۔ کہا جاتا ہے "زَال عَنْ سزوبہ" یعنی اس کی
 عزت جاتی رہی۔ خواب گاہ۔ گردن اور سر کے
 ملنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "سزوبوا امَسزوبۃ
 زُووسہم" انہوں نے ان کی گردن میں سر کے
 ملنے کی جگہ پر مارا۔ نعمت۔ فرامی زندگی۔ ٹیلہ پر
 کی ریت۔ ج امَسزوبۃ وسزوب۔
 السزوبۃ۔ بھید۔ راز۔ وہ امر جس کو پوشیدہ رکھا
 جائے۔ نیت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ظَلِيْبُ السزوبۃ"
 وہ پاک دل صاف نیت والا ہے۔ ج سزوب۔
 السزوبۃ۔ لونڈی جو ہم خوابی کے لیے مخصوص
 کی جائے۔ ج سزوب۔ اغلب یہی ہے کہ اس کا
 اشتقاق سزوب سے ہے اور بعضوں کے نزدیک
 سرور سے ہے۔
 السزوب۔ بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے والا
 اور ان کو خوش رکھنے والا۔
 السزوب۔ خوشی۔ خوش حالی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 صَدِيْقٌ لَهُمْ فِي السزوب والسزوب" وہ ان

سَرَعَانٌ وَسَرَعَانٌ الْقَوْمُ أَوْ الْغَيْلُ: سب سے آگے کے لوگ یا گھوڑے۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ فِي سَرَعَانَ النَّاسِ“ وہ سب سے آگے کے لوگوں میں آیا۔

السَّرْعُ: جلد باز۔ ج سَرَعَانٌ۔ مؤنث سَرِيعَةٌ۔ ج سِرَاعٌ۔ اشعار کے اوزان میں ایک وزن۔

السَّرْعُ وَالسَّرَعَانُ: جلد باز۔ مؤنث سَرِيعَةٌ۔

الْأَسْرَانِيعُ: کمان کی کبیریں۔ کہا جاتا ہے ”فَوَسَّ ذَاتَ أَسْرَانِيعٍ“ کبیروں والی کمان۔ سفید جسم اور سرخ سروا لے کبیرے۔ واحد (السَّرْفُ) و (يَسْرُوعُ)

المِسْرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: خیر یا شرکی طرف جلدی لپکنے والا۔ ج مَسْرَاعٌ وَمَسْرَائِعٌ۔ السَّرْعُوبُ: نیولا۔

سَرَعَفٌ سَرَعَفَةٌ: الضَّبِيُّ: بچے کی اچھی طرح پرورش کرنا۔

تَسْرَعَفٌ: الضَّبِيُّ: بچے کا اچھی طرح پرورش پانا۔

السَّرْعُوفُ: نازک و سبک گوشت۔ مؤنث سَرَعُوفَةٌ۔ السَّرْعُوفَةُ: لمبے قد کی نازک بدن عورت۔ ڈبی۔ کپڑے کو چھانٹنے والا کپڑا۔

سَرَعٌ (س) وَسَرَعٌ (ك) سَرَعَةٌ وَسَرَعَاوٌ سَرَعَاوٌ وَسَرَعَاوٌ سَرَعَاوَةٌ: جلدی کرنا۔ سَرَاعٌ: سَرَاعٌ: سَبَقْتُ كَرْنَا _____ فِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔

أَسْرَعٌ فِي الْمَشِيِّ: جلدی چلنا۔ تَسْرَاعٌ وَتَسْرَعٌ إِلَى الْأَمْرِ: سبقت کرنا۔ جلدی کرنا۔ تَسْرَعٌ بِالْأَمْرِ: سبقت کرنا۔ تَسْرَعٌ الْأَمْرُ: جلدی ہونا۔

السَّرْعُ وَالْمِسْرَعُ: انگریز کی تازہ شاخ۔ ہر تر شاخ۔ ج سَرْعُوعٌ۔

سَرَعَانَ وَسَرَعَانَ وَسَرَعَانَ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

سَرَعَانَ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرْعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرْعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

تَسْرَعُوهَا وَاسْتَسْرَعُوا الشَّيْءَ: لگنا۔ اِنْسَرَطَ: الشَّرَابُ فِي حَلْفِهِ: حلق میں آسانی سے آرتا۔

المِسْرَاطُ: واضح راستہ۔ السَّرَاطُ: مِنَ الشَّيْءِ: بہت کاتنے والی تلوار۔

السَّرَاطِي: بہت کاتنے والی تلوار۔ (_____) وَالسَّرَاطُ وَالْمِسْرَاطُ وَالسَّرَطَةُ وَالسَّرَاطُ وَالْمِسْرَاطُ: جلدی لگنے والا۔ بہت کھانے والا۔ السَّرَطُ: تیز چلنے والا۔ السَّرَطِي: اسم ہے سَرَطُ: کا لگنا۔

السَّرَطَانُ: مہ۔ کپڑا۔ اور اس کا نام عَقْرَبُثُ المَاءِ بھی ہے اور عوام اس کو السَّرَطَانُ کہتے ہیں۔ السَّرَطَانُ: ایک برج آسمانی کا نام ہے۔ ایک پھوڑے کا نام جس میں کپڑے کی ٹانگوں کی طرح رگیں دکھائی دیتی ہیں اور کہا جاتا ہے ”فَوْسُ سَرَطَانَ أَوْ سَرَطَانَ الْجَرِي“ یعنی تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

المِسْرَاطُ وَالْمِسْرَاطُ: حلق۔ المِسْرَاطُ: جلدی کھانے والا۔ سَرَطَعٌ: گھبراہٹ کی وجہ سے تیز دوڑنا۔ السَّرَطَلُ وَالْمِسْرَاطَلُ: بے ذول۔ لبا۔ السَّرَطَلُ وَالْمِسْرَاطَلُ: بہت کھانے والا۔

سَرَعٌ (س) وَسَرَعٌ (ك) سَرَعَةٌ وَسَرَعَاوٌ سَرَعَاوٌ وَسَرَعَاوٌ سَرَعَاوَةٌ: جلدی کرنا۔ سَرَاعٌ: سَرَاعٌ: سَبَقْتُ كَرْنَا _____ فِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔

السَّرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَعَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

رکھا۔

سَرَدٌ وَأَسْرَدٌ: الْأَدِيمُ وَنَحْوُهُ: چمڑے وغیرہ میں سوراخ کرنا اور سینا _____ التَّخْلُ: درخت خرابا پانی نہ ملنے سے مرجھانا۔

تَسْرَدُ: الدُّرُّ: موتیوں کا لڑی میں ترتیب وار ہونا۔ کہا جاتا ہے ”تَسْرَدُ دَمْعُهُ كَمَا يَتَسْرَدُ اللَّؤْلُؤُ“ اس کے آسو موتیوں کی طرح ترتیب

داریں۔ السَّرَدُ: مہ۔ ہرزہ اور حلقہ کے لیے اسم ہے۔ کہا جاتا ہے ”لُجُومٌ سَرَدٌ“۔ السَّرَدُ: مہ۔ لگا رہنا۔

السَّرَادُ: پھل کو پانی نہ ملنے سے پڑھو گی۔ المِسْرَادُ وَالسَّرِيدُ وَالْمِسْرَدُ: ستالی۔ المِسْرَدُ: زبان۔ دہرا سلا ہوا جوتا۔

السَّرَادُ: موچی۔ السَّرَادُ: زہر مٹانے والا۔ المَسْرُودُ وَالْمَسْرُودَةُ: زہر۔ المِسْرَادُ: مہ۔ ج سَرَادِيْبُ۔ سَرَدَحَةٌ: بیکار چھوڑنا۔

السَّرَادِحُ وَالْمِسْرَادِحَةُ: لمبی اونٹنی اور بتول بعض مضبوط پر گوشت اونٹنی۔ السَّرَادِحُ: کھیلے کے درختوں کا جھنڈ۔ واحد مِسْرَادِحَةٌ۔ أَرْضٌ مِسْرَادِحَةٌ: ہموار زمین۔ دور کی زمین۔ ج سَرَادِحٌ وَسَرَادِيْحٌ۔ مَسْرُودٌ: البَنِيْتُ: پردہ لگانا۔ شامیانہ لگانا۔ خیمہ لگانا۔

السَّرَادِيْحُ: شامیانہ۔ خیمہ۔ بلند غبار یا دھواں جو کسی چیز کو محیط ہو۔ ج سَرَادِيْحَاتٌ۔ مَسْرَسٌ (س) مَسْرَسَةٌ: بد خلق ہونا۔ جمالت کے بعد ادا ہو شیار ہونا۔

السَّرَسِيْسُ: عقل مند۔ زیرک۔ مقبوضہ چیز کا محافظ۔

مَسْرَسٌ: الشَّفْرَةُ: دھار تیز کرنا۔ السَّرَسُورُ: زیرک۔ محبوب۔ خالص ساتھی کہا جاتا ہے۔ ”هُوَ سَرَسُورٌ مَالٌ“ وہ مال کا بہتر منتظم ہے۔

المِسْرَسَامُ: ایک دماغی بیماری کا نام۔ سَرَطَانُ (ن) وَسَرَطَانُ (س) سَرَطَانٌ وَسَرَطَانَاوٌ

سَرَطَانٌ وَسَرَطَانَاوٌ سَرَطَانَةٌ وَسَرَطَانَاوَةٌ: جلدی کرنا۔ سَرَطَانٌ: سَرَطَانٌ: سَبَقْتُ كَرْنَا _____ فِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔

السَّرَطَانُ وَالْمِسْرَطَانُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَطَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَطَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَطَانُ وَالْمِسْرَطَانُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَطَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَطَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَطَانُ وَالْمِسْرَطَانُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَطَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَطَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَطَانُ وَالْمِسْرَطَانُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَطَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَطَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

السَّرَطَانُ وَالْمِسْرَطَانُ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَطَانَ الْقَوْمَ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسَرَطَانَ مَا فَعَلْتَ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

فی کذا: حد سے تجاوز کرنا۔ زیادتی کرنا۔ خطا کرنا۔ جاہل ہونا۔ غافل ہونا۔ صفت (مُسْرِف)

السَّرْفَةُ: گمن۔ سرخ۔ جسم اور کالے سروا لکیرا جو چھوٹی لکڑیوں کو اپنے لعاب سے جوڑ کر گھریاتا ہے اور اس میں داخل ہو کر مر جاتا ہے۔ اسی سے مثال ہے "هُوَ أَصْنَعُ مِنَ سَرْفَةِ" وہ سرفہ سے زیادہ کارگر ہے۔

السَّرْفُ: حد و اعتدال سے تجاوز کرنا۔ زیادتی۔ خطا۔ کہا جاتا ہے "اَكَلَهُ سَرْفًا" اس نے جلدی سے کھایا۔

السَّرْفُ: سرفہ (ذکورہ بالا کیڑے) کا درخت کے پتوں کو چاٹ جانا۔

رَجُلٌ سَرْفٌ (سَرْفٌ) الْفَوَادُ: غافل مرد۔ سَرْفٌ الْعَقْلُ: خراب یا کم عقل والا۔

ارضٌ سَرْفَةٌ: زمین جس میں سرفہ کیڑے بست ہوں۔

السَّرْفُوفُ: تخت اور بڑا۔

السَّرِيفُ: انگریزی تیل کی قطار۔

السَّرْفِجُ: شیطان کا نام۔

السَّرْفِيفُ وَالسَّرْفِيفِينَ: فرشتہ کا نام جو قیامت کو صور پھونکے گا۔

سَرْقٌ (سَرْقٌ) سَرْقًا وَسَرْقًا وَسَرْقَةً وَسَرْقَةً وَسَرْقَانًا: مِنْهُ الشَّيْءُ وَسَرْقَةُ الشَّيْءِ: چرانا۔ کہا جاتا ہے "سَرْقُوا لَيْلَةَ مِنَ الشَّهْرِ" جبکہ اس رات میں عیش کے ساتھ رہیں۔ و "سَرْقَتَيْنِ عَيْنَيْنِ" میری آنکھ میرے اوپر غالب ہوئی۔

سَرْقٌ: الزَّجَلُ: کسی کے مال و متاع کا چوری ہو جانا۔ صَوْنُهُ: آواز پڑنا۔ گلا بیٹھ جانا۔ صفت سَرْقُوقِ الصَّرْبِ:

سَرْقٌ (س) سَرْقًا: الشَّيْءُ: پوشیدہ ہونا۔ سَرْقَتٌ مَفَاصِلُهُ: جوڑوں کا سخت ست ہو جانا۔ سَرْقَةٌ: چوری کی نسبت کرنا۔ سَرْقُوقِ الشَّيْءِ: چرانا۔

سَارِقَةٌ: النَّظَرُ: ایک دوسرے کو دوزیدہ نگاہ سے دیکھنا اس طرح کہ کسی اور کو علم نہ ہو۔ سَارِقٌ النَّظَرِ لَيْلِيَّةٌ: کسی کو دوزیدہ نگاہ سے دیکھنا۔ تَسْرُقُ: تھوڑا تھوڑا چرانا۔ النَّظَرُ وَالسَّمْعُ: چوری سے دیکھنا یا سنا۔

السَّرْقَةُ: عَتَّةٌ: جانے کیلئے پیچھے ہٹنا۔ السَّرْقَتُ مَفَاصِلُهُ: جوڑوں کا ست ہو جانا۔

السَّرْقُ: مِنْهُ الشَّيْءُ: چرانا۔ السَّمْعُ: چھپ کر سنا۔ الكَاتِبُ بَعْضُ الْمُحَاسِبَاتِ: چھپایا۔ ظاہر نہ کرنا۔

السَّرْقَةُ: مہ۔ چرائی ہوئی چیز۔

السَّرَاقُ: فَاحِ سَرْقَةٌ وَسَّرَاقٌ وَسَارِقُونَ مَوْثٌ سَارِقَةٌ: السَّرَاقَةُ: بوبے یا ہڑے کا طوق۔

سَرَّاقٌ: السَّرَاقُ: تالے کی زائد چھڑ۔

السَّرْقَةُ: مہ۔ حریر کا ٹکڑا۔ سَرَّاقٌ (یہ کلمہ اس معنی کے لحاظ سے فارسی ہے۔)

السَّرَاقُ: بہت چرانے والا۔

السَّرَاقُ: چور۔ سَرَّاقٌ: السَّرَاقَةُ: چرائی ہوئی چیز۔

السَّرَّاقُ: فَاحِ نَاقِصٌ كَمَزُورٌ مُسْتَرْقِقُ الْعُنُقِ: چھوٹی گردن والا۔

السَّرْفُوعُ: ترش تیز۔

السَّرْفِيفُ وَالسَّرْفِيفِينَ: گور۔ کھاد۔

سَرْكٌ (س) سَرْكًا: قوت و توانائی کے بعد کمزور جسم والا ہونا۔

سَرْوَةٌ وَتَسْرُوكٌ: لاغری یا تھکن کی وجہ سے آہستہ چلنا۔

السَّرْوَكُوكُ: لاغروغٹ۔

سَرْوَةٌ: کھڑے کھڑے کرنا۔

تَسْرَمٌ: کھڑے کھڑے ہونا۔

السَّرْمُ: مستقیم آنت کا تار۔ سَجَاسْمُومٌ۔

السَّرْمُ: ویر کا درو۔

السَّرْمَانُ وَالسَّرْمَانُ: زرد سیاہ بھڑ۔

السَّرْمَدٌ: بِيضٌ: لَبْلُبٌ سَرْمَدٌ: لمبی رات۔

السَّرْمَدِيُّ: جس کی ابتدا آسمان ہو۔

تَسْرَمُظُ الشَّعْرِ: بال ہلکے اور کم ہونا۔

السَّرْمَطُ وَالسَّرْمِيطُ وَالسَّرْمُوطُ وَالسَّرْمُوطُ وَالسَّرْمِيطُ: ہر ایک لمبی چیز۔

السَّرْمُوطُ: ہر کبیل وغیرہ جس میں کوئی چیز لکٹی جائے۔ زَجَلٌ سَرْوَمُوطٌ: ہر چیز کو ننگے والا مرد۔

السَّرْمَقُ: ایک گھاس کا نام۔

السَّرْمَقَدِيُّ: اپنے کاموں میں جلد باز۔ مَوْثٌ سَرْوَدَةٌ:

السَّرْوُوفُ: ایک شکاری پرندہ۔

السَّرْوَانُفُ: لمبے قد والا۔

السَّرْوَهَبُ: بوقرف۔ بہت کھانے پینے والا۔

السَّرْوَهْبَةُ: اچھے تن و قوت کی اور لمبے قد والی عورت۔

سَرْهَجٌ سَرْهَجَةٌ: سرکش کرنا۔

السَّرْحَلُ: ریشی کو مضبوط بنانا۔

سَرْهَدٌ: السَّرْمَانُ: کوہان کو کاٹنا۔

السَّرْحِي: بچہ کو اچھی خوراک کھلانا۔

السَّرْهَدُ: کوہان کی چربی۔ مَاءٌ سَرْهَدٌ: بہت پانی۔

السَّرْهَدُ: مہ۔ موٹا۔

سَرْهَفٌ: الْعِلْمَةُ: غذا کو عمدہ بنانا۔

السَّرْحِي: بچہ کو اچھی خوراک کھلانا۔

سَرْوَاتٌ سَرْوَاتٌ: سَرْبَتُ الْجَوَادَةِ: مڈی کا اترے دینا۔

السَّرْوِيَّةُ وَالسَّرْوِيَّةُ: کپڑے اتارنا۔

سَرْوَاتٌ سَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ: صاحب مروت و سخاوت ہونا۔

سَرْوِيٌّ وَالسَّرْوِيَّةُ: عَتَّةُ الْهَمِّ: غم زائل ہونا۔ دور ہونا۔ سَرْوِيٌّ الْقَوْمُ: سردار قوم کا مار جانا۔

سَرْوَاهُ مَسَارِقَةٌ: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔

تَسْرُوِيٌّ تَسْرُوِيًّا: بکلاف مروت و سخاوت کرنا۔

لوٹری کو ہم خوابی کے لیے مقرر کرنا۔

السَّرْوِيَّةُ: اِسْتِزَاءٌ: اِحْتِيارُ كَرْنَا: مَوْثٌ الْقَوْمُ: قوم کے سرداروں میں موت واقع ہونا۔

السَّرْوُ: مہ۔ فضل۔ مروت و سخاوت۔ ایک درخت کا نام۔ واحد (سَرْوَةٌ) أَبْوَابُ السَّرْوِ: نخور۔

السَّرْوَةُ وَالسَّرْوَةُ وَالسَّرْوَةُ: چھوٹا تھوڑا اور بقول بعض چوڑے پھل کا تھوڑا سبزی و سبزی السَّرْوَةُ: مڈی کا بچہ جو اچھی کیڑے کی شکل کا ہو۔

السَّرَاةُ: بیٹھ۔ دن کی چڑھائی۔ مِنْ الظَّرْفِ: درمیان راہ۔ سَرْوَاتٌ: سَرْوَاتٌ الْقَوْمُ: سرداروں کا نام۔

السَّرْوِيَّةُ: صاحب شرف و مروت یا صاحب مروت و سخاوت۔ شَرِيفٌ سَرِيٌّ: ہر چیز میں

عمدہ۔ ج سزئی و سزاة و سزاة و اسزیناء و سزواء مؤنث سزینة ج سزینات و سزینا۔
سزولة پاجامہ پستانا۔
سزول پاجامہ پستانا۔
السزوال و السزوالة و السزویل و السزویل۔ پاجامہ۔
ازار۔ کلمہ فارسی ہے اور مؤنث ہے اور بھی مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ ج سزویل۔ فزوش (سزول) بازوؤں اور رانوں تک سفیدی والا گھوڑا۔
حَمَامَةٌ (سزولة) ناگوں پر والا کبوتر۔
سزى يسرى سزى و سزينة و سزينة و سزينة و سزينة و سزینا و سزینا و سزینا و سزینا۔ رات میں چلنا۔ صفت (سار) ج سزاة و سزى بہ: رات میں سفر کرنا و سزى عِزْفُ الشَّجْوَةِ: درخت کی جڑ کا زمین کے نیچے چل پڑنا۔ سزى الدَّمْ لِنِ الْعَزْوِقِ: خون کا رگوں میں دوڑنا۔
الهُمُّ: غم زائل ہونا اور کہا جاتا ہے "سزى الجوز إلى النفس" یعنی زخم سے اثر کیا یہاں تک کہ ہلاکت واقع ہوگئی۔
سزى۔ عنة: غصہ یا غم کا رازا کل ہونا۔
أسزى اسزاء۔ رات میں چلنا۔
الزجل: کشادہ زمین کی طرف جانا۔
سزى۔ عنة اور عن قلبہ: کسی سے غم دور کرنا۔
قائذ الجیش: کمانڈر کا دستہ فوج بھیجا۔
سزى۔ صاجبہ: ساتھ ساتھ رات میں چلنا۔
سزى و اسزى۔ دیکھئے ماہ س ر و۔
السزى و السزین و السزین۔ مصاد۔
رات کا سفر اور عرب کا قول "عند الصباح يُحَمَدُ الْقَوْمَ السزى" مثال ہے جو ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ مشقت برداشت کرنے میں راحت کی امید ہو۔ ابن السزى: رات کا مسافر۔
السزینة۔ ڈی کا پتہ جو ابھی کیرے کی شکل کا ہو۔
السزاة۔ ہر چیز کا بالائی حصہ۔ سزاة الجبل۔ پہاڑ کی چوٹی۔ سزاة الضحى: ابتداء وقت چاشت۔

السزاء۔ ایک درخت جس سے مکن بنائی جاتی ہے۔ واحد (سزاة)۔
السزاء۔ رات میں بہت چلنے والا۔
السزى۔ فاج سزاة)۔ و السزى و (السزى)۔
السزینة۔ ساری کا مؤنث۔ رات کو چلنے والی جماعت۔ رات کو آنے والا بادل۔ سزون۔
عند الصلحین: مستول۔ ج سزوار۔
السزینة و السزینا۔ شامی محل (کلمہ فارسی ہے)۔
السزى۔ چھوٹی ڈی۔ ج اسزینة و سزینان۔
السزینة۔ دستہ فوج۔ تیر کا چھوٹا اور گول پھل۔ ج سزینا۔
السزب و السزب و السزب۔ ایک درخت کا نام جس کی گڑی سے تیر بناتے ہیں۔
السزینان۔ ایک درخت جس کے پتے چوڑے اور پھول سفید ہوتے ہیں اور اس کا دانہ مٹانے کی پتھری کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
الأسزط۔ لمبی ناگوں والا مرد۔
السطح۔ ظالم لوگ۔
سطأ (ف) سزأ۔ الجارینة: جماع کرنا۔
الأسزطبة۔ کتاں کا وہ حصہ جو صاف کرنے کے وقت گرے۔
المسزطبة و المسزطبة۔ چوڑے۔ نمائی ککشاں۔ قراء اور سائلین کے جمع ہونے کی جگہ۔
سزاء۔ ج مسزاطب (ساد کے ساتھ ابلغ ہے)۔
سطحہ (ف) مسزطحا۔ پچھانا۔ پچھاڑنا۔ "لانا۔ کہا جاتا ہے "سزبه فسزطحة" اس سے اس کو ہارتے مارتے پچھاڑا (سطح) البیت: چھت کو ہموار کرنا۔ سطح و سطح التاقہ: اونٹنی کو ہموار کرنا۔
سطح۔ ہموار ہونا۔
إنسطح۔ بغیر کسی حرکت کے چت لیٹنا۔ پھیلانا۔
السطح۔ مہ۔ چھت۔ چوڑی چوٹی۔ ج سطوح۔
السطیح۔ پھیلا ہوا۔ کمزوری یا بیماری کی وجہ سے سستی سے اٹھنے والا (و السطیحہ) توش دان۔

سَطَعَ (ف) سَطَعًا وَسَطَعًا وَسَطَعًا.
الغبار أو الزايحة والنور: غبار یا بویاروشنی کا بلند ہونا۔ پھیلا اور اسی سے ہے "سَطَعَتْ زايحة المسك" یعنی مشک کی خوشبو پھیل گئی۔ پیدہ: نال بجانا۔ تم کہتے ہو "سَطَعْنِي زايحة المسك" جبکہ مشک کی خوشبو تمہاری ناک میں پہنچے (سَطَعًا) زايحة: گردن لمبی کر کے سر اٹھانا البجيز: گردن یا پلو پر لباداؤں لگانا۔

سَطَعَ (س) سَطَعًا: دراز گردن ہونا۔ صفت (أَسَطَعَ) مَوْنَتْ (سَطَعَاء) سَطَعًا: بلند کرنا۔ اٹھانا۔ پھیلا نا۔ البجيز: گردن یا پلو پر لباداؤں لگانا۔

السَطَع: مہ۔ ہر وہ چیز جو بلند ہو اور پھیلے عام اس سے کہ غبار ہو یا روشنی یا بجلی۔ السَطَع: تالی۔ تالی بجانے یا تیر پھینکنے کی آواز۔ السَطَاع: لباداؤں۔ خیرہ یا گھر کا سب سے لمبا ستون۔ اونٹ کی گردن یا پلو میں لباداؤں۔ ج سَطَعَ وَأَسَطَعَهُ: السَطِيح: صحیح لبادا۔ المنطع: فصیح۔ خوش بیان۔ کہا جاتا ہے "عَطِيْبٌ مَنطَعٌ وَمَصْقَعٌ" یعنی بلخ لکچرار۔ الأَسْطَقْس: عمر۔ ج سَطَقْسَات۔ سَطَلَةٌ (ض ن) سَطَلًا: الدَّوَاءُ: مددوش کرنا۔

السَطَلُ وَالسَطَلُ: مددوش ہونا (لغت عوام ہے) کہا جاتا ہے جَاءَ (يَسَطِلُ) وہ تھا آیا اس کے ساتھ کچھ نہ تھا۔ الساطيل من الغبار: بلند غبار۔ السطل: ایک تانے کا برتن جس میں دست لگا ہوا ہوتا ہے جس کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں۔ ج أسطال وسطول: مرد روز قامت۔ السنطيل: بمعنی سطل اور بقول بعض بمعنی طشت۔ الأسنطول: جہازوں کا بیزا۔ ج أساطيل (کلمہ عجی ہے) سَطَمَ (ن) سَطَمًا: الباب: دروازہ بھیڑنا۔ بند کرنا۔

السظام: آگ کی کرہلی۔ شیشی کی ڈاٹ۔ تلوار کی دھار۔ السظام: مہ۔ تلوار کی دھار۔ السظام: بڑیں۔ الإسظام: آگ ہلانے کی کرہلی۔ الأنظام والأنظمة: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: درمیان۔ بڑا حصہ۔ مِنَ الْبَحْرِ: سندر کا بڑا حصہ اور اسی سے ہے "وَلَيْلٌ ظَمًا أَسْطَمُهُ" رات کی تاریکی بہت بڑھ گئی۔ أَسْطَمَةُ الْقَوْمِ قوم کے جمع ہونے کی جگہ۔ اشراف قوم۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي أَسْطَمَةِ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کے درمیان میں ہے۔ ج أساطم۔ الساطن: خمیٹ۔ لمبید۔ الاسان: ایک پتیل کا برتن۔ الأسنطون: مِنَ الْجَمَالِ: لمبی گردن کا اونٹ۔ الأسنطوانة: کہنا۔ ستون۔ جانور کی ٹانگ۔ ج أساطين (کلمہ اجنبی ہے) کہا جاتا ہے "هُمُ اساطين الزمان" وہ لوگ زمانہ کے حکما ہیں۔ و "أساطين مُسَطَّنَةٌ" مضبوط کھبے۔ المُسَطَّن: لمبی ٹانگوں والا۔ سَطَا سَطَطًا سَطَطًا: سَطَوًا سَطَوًا: بہہ و غلبہ: کسی پر حملہ کرنا۔ مغلوب کرنا۔ مضبوط پکڑنا۔ الفؤس: خود سری سے دور دور قدم رکھنا۔ الماء: بہت ہونا۔ کہا جاتا ہے "منا سَطَوْتُ فِي الْقَاعِ" میں نے کھانے کو نہیں چکھا۔ أسطى اسطاءً عَلَيْهِ: بمعنی سطا۔ ساطى الرجل: سختی کرتا۔ نرمی کرنا۔ (ضد) الساطي: فا۔ دور دور قدم رکھ کر چلنے والا گھوڑا۔ وہ گھوڑا جو چلنے میں دم کو اٹھائے۔ تَسَعَب: الشئ: تار سا کھینچنا (جیسے شد شيرہ وغیرہ سے) اِنْسَعَبَ الماءُ يَاسِيًا: پانی بہنا۔ السغب: ہر لذت والی چیز جس سے تار کی مانند کھنچے۔ السغبوب: شد۔ شيرہ۔ لعاب عطمی وغیرہ کا تار۔ ج سغابيب۔ المُسَعَب: جائز۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مُسَعَبٌ لَهُ"

وہ اس کے لیے جائز ہے۔ السعير: بہت پانی والا کواں۔ ماءً سَعِيرًا بہت پانی۔ سَعِيرٌ سَعِيرٌ: ارزاں نرخ۔ ج سَعَابِرُ سَعَابِرُ الطَّعَامِ: گیہوں کا بچھوڑن۔ السعير: ہاڑی پورینہ (لغت جیدہ صغتر بالصاد ہے)۔ السَعَيْرِيُّ أو الصغيرِيُّ: ہمار۔ سختی۔ چالاک۔ سَعَدٌ (ف) سَعْدًا وَسَعْدًا: التَّوْمُ: مبارک ہونا۔ سَعَدٌ (س) وَسَعَدٌ سَعَادَةٌ: نیک بخت ہونا۔ صفت (سَعِيدٌ) ج سَعْدَاءُ وَ (مَسْعُودٌ) ج مَسَاعِيدُ۔ سَعَادَةٌ: عَلَى الْأَمْرِ: کسی کی کسی کام پر مدد کرنا۔ أَسْعَدَهُ عَلَى الْأَمْرِ: مدد کرنا۔ أَسْعَدَهُ اللَّهُ: نیک بخت بنانا۔ صفت (مُسْعِدٌ) مُسْعِدٌ نَسِعَدُ: مبارک ہونا۔ الزاعجی: سَعْدَانٌ گھاس کی چراگاہ تلاش کرنا۔ اِسْتَسْعَدَ بِالشَّيْءِ: اپنے لیے مبارک سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَسْعَدَ فَلَانٌ بِرُؤْيَا فَلَانٌ" فلاں نے فلاں کے دیکھنے کو اپنے لیے مبارک سمجھا۔ السعد: برکت۔ خوش بختی۔ ج أسعد السعد: کہا جاتا ہے "لَبِيكُ وَسَعْدِيكُ" یعنی میں تمہاری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں۔ سَعْدُ النُّجُومِ: دس ستارے ہیں جن میں سے ہر ایک کو سَعْدٌ کہا جاتا ہے۔ الساعد: فا۔ سردار۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُمْ سَاعِدٌ يَعْتَمِدُونَ" ان کے لیے کوئی سردار نہیں جس پر اعتماد و بھروسہ کریں۔ بازو۔ کہا جاتا ہے "شَدَّ اللَّهُ عَلَى سَاعِدِكَ" اللہ تعالیٰ تمہارے بازو کو مضبوط کریں۔ سَاعِدًا الْقَطْرِ: پرندے کے بازو۔ ج سَوَاعِدُ: کہا جاتا ہے ظائر شد يَدُهُ السَّوَاعِدُ: مضبوط بازو والا پرندہ۔ الساعدة: چرخی کا ڈنڈا۔ ج سَوَاعِدُ

السواعد: دریا یا سندر کی طرف پانی جانے کے
نالے۔ ہڈی میں مغز کی نالی۔ تھن میں دودھ نکلنے
کے سوراخ۔ الساعدة: سونے یا چاندی کا بارو
بند۔ شیر۔
السعادة: نیک بختی۔

السعادي: مویجا جو ایک قسم کی خوشبودار
گھاس ہے جو زخموں کے لیے بہت مفید ہے۔
السعدان: ایک خار دار پودہ جو اونٹوں کے
لئے بہتر چارہ ہے اور اسی سے منسلک ہے "مغزغی
ولا کلا السعدان" اس شخص کے حق میں بولتے
ہیں جو کم پر قناعت کر لے۔

السعدان: اسعاد کا اسم ہے۔ کہا جاتا ہے
"سُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ" یعنی میں خدا کی پاکی
بیان کرتا ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں۔
السعدانة: کیوڑ۔ پستان کا سر یا پستان کے سر
کی ارد گرد کی سیاہی۔ حلقہ ڈیر۔ ترازو کی رتھی کی
گہرہ۔

السعودۃ: نیک بختی۔
سعاد و سعدي: فرض محبوبہ کے نام۔ جن کو
تقدیم شعراء تشبیب میں استعمال کرتے تھے۔

سَعَو (ف) سَعَوْا أَسْعَوْا: التَّاز: آگ بھڑکانا
التَّبَعِرُ الْإِبِلَ بِحَبْرِهِ: کھجلی پھیلانا۔ سَعَوُ
الْقَوْمِ سَعْوًا: ساری قوم میں ہدی پھیلا دینا۔
سَعَوْنَا هُمْ بِالْتَبِيلِ: جلانا۔ پیوست کرنا۔ سَعَوُ
الْمَيْلِ بِالْمَطِي: طے کرنا۔ سَعَوَاتُ النَّاقَةِ فِي
سَبِيحِهَا أَوْ نَشِي كَاتِمٌ دَوْرًا: صفت (سَعَوْر) کہا
جاتا ہے "سَعَوَاتُ الْيَوْمِ فِي حَاجَتِي سَعْوَةٌ"
یعنی میں آج اپنی ضرورت سے تمام دن پھر لگاتا
رہا۔

سَعَو (س) سَعَوَانًا: الْفَرَسُ: گھوڑے کا تیز
دوڑنا۔

سَعَوُ: التَّبَعِرُ: اونٹ کا پاگل ہونا۔ صفت
(مَسْعُورٌ) الزَّجْلُ: گرم ہوا سے مجلس
جانا۔

سَعَوُ: التَّاز: آگ بھڑکانا الشَّيْ: کسی
چیز کا بھاد مقرر کرنا یا بھاد کا اندازہ کرنا۔
الْقَوْمُ: بھاد پڑانا۔
سَاعَاةٌ مُسَاعَاةٌ: بھاد بھرنانا۔

تَسَعَّرَتِ: التَّاز: آگ بھڑکانا
الْحَقْلَبُ: لکڑی کا بصل اٹھنا۔

إِسْتَعْوَر: بھڑکانا الشَّوْرُ: بڑائی کا پھیلنا
العَجْوَبُ فِي التَّبَعِرِ: اونٹ کی بصل وغیرہ
میں کھجلی شروع ہوتا۔

السفر: مع زمني سَعَوٌ: سخت تکلیف دہ تیر
اندازی۔

السفر: نرخ: حج استعار۔
السفر: گرمی: سخت بھوک (السفر والسفر)
دیوانگی۔ السفر: رنج و خراب۔

السفر: پاگل۔ دیوانہ۔ حج سَعَوِي.
السفرة: کام کی ابتداء اور اس کی تیزی۔
کھانسی۔

السفر والسفرة: سیاہی مائل رنگ۔
السفر: آگ کی لپیٹ۔ حج سفر۔

السفر: گرمی۔ بھوک کی تیزی۔ پیاس کی
شدت۔

السعور: آگ۔ تور۔
السعورة: آگ۔

الأسعر: دہلا پڑنا جس کے پٹھے ظاہر ہوں۔ سیاہی
مائل رنگ والا۔ مؤنث سَعَوْرَة: حج سفر۔

المسعر: آگ جلانے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
مِسْعَرٌ حَزْبٌ" وہ لڑائی بھڑکانے والا ہے۔ سخت۔
بھی گردن۔ كَلَّبْتُ مِسْعَرًا: دیوانہ کنا۔ و
المسعران آگ جلانے کی چیز۔

المسعرور: باوجود غم سیری کے کھانے کا
حریص۔ ناقۃ مسعورة: دیوانہ اونٹنی۔

مَسَاعِيرُ: التَّبَعِرُ: اونٹ کی ران کی جڑیں اور
بصل۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ الْعَجْوَبُ فِي مَسَاعِيرِ
التَّبَعِرِ" اونٹ کی ران کی جڑوں میں کھجلی شروع
ہو گئی۔

السفرازة والسفروزة: صج۔ شعاع۔ آفتاب
جو روشن دان میں داخل ہو۔

سَفَسَعٌ وَتَسْفَسَعٌ: بہت بوڑھا ہونا۔
السفیع: بوساہے کی وجہ سے لڑکھڑاتا۔

قرب قریب قدم رکھنا۔ سَفَسَعٌ زَانِسٌ: سر کو
تیل سے تر کرنا۔

السففسع: بھیرنا۔

سَعَطَه (ف) سَعَطَا وَسَعَطَه وَاسَعَطَه:
الذَّوَاءُ: ناک میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "أَسَعَطَه
الزُّمْعُ" اس نے ناک میں نیزہ مارا۔ و "أَسَعَطَه
عِلْمًا" اس نے اس کو علم سمجھانے میں بہت
کوشش کی۔

إِسْتَعَطَ: الذَّوَاءُ: ناک میں چڑھانا۔
إِسْتَسَعَطَه: ناک میں دوا چڑھانے کو کہنا۔

السعیط: خوشبو۔ بان کا درخت۔ بان کا تیل۔
رائی کا تیل (السعیط) بوی کی تیزی۔
السعیط: ناک میں چڑھانے کی دوا۔ نوار
(مولدہ) اور عوام "عظوم" کہتے ہیں۔

المسعیطو المسعیط: نوار کی ذیبا۔
سَعَفَةٌ (ف) سَعَفًا: بِحَاجَتِهِ: کسی کی حاجت
پوری کرنا۔

سَعَف (س) سَعَفًا: ناخن کے ارد گرد پھٹی
ہوئی انگلیوں والا ہونا۔

سَعَفُ: الْوَجْهُ: پھنسیوں والا ہونا۔ صفت
(مَسْعُوفٌ)

سَعَفٌ: الْمَسْكُ: مسک کو دوسری خوشبوؤں
سے ملانا۔

سَاعَفَهُ: موافقت کرنا۔ مدد دینا۔
أَسَعَفَهُ: بِحَاجَتِهِ: کسی کی حاجت پوری کرنا۔

ه عَلَى الْأَمْرِ: مدد کرنا۔ أَسَعَفَ بِالزَّجْلِ:
کسی کے قریب ہونا الشَّيْ: قریب ہونا۔

أَسَعَفَ لَهُ الصَّيْدَ: شکار کا موقع دینا۔
أَسَعَفَتِ الْحَاجَةُ: حاجت کا قریب پہنچنا۔ وقت
آنا۔ الْيَبِ: توجہ کرنا۔ قصر کرنا۔

تَسَعَفَتْ: أَطْفَاةً: پھٹنا۔
السعف: مع۔ سامان۔ کینہ آدمی۔

السعفة: پھنسیوں جو منہ یا سر میں نکلتی ہیں۔
السعف: مع۔ دلہن کا جیز۔ سامان خانہ۔ حج

سَعُوفٌ: کھجلی کی مانند اونٹ کے منہ کا ایک
مرض۔ کھجور کی شاخ۔ واحد (سَعْفَةٌ)

السعوف: بڑے پالے۔ انسانی خصلتیں۔
مثل جود و کرم۔ گھریلو سامان (اس کے لیے واحد
نہیں)

الأسعف: من الإبل: منہ کی بیماری والا
اونٹ۔ من العنجل: سفید پیشانی والا

السعف: سفید پیشانی والا

فِصَالٌ (سَاعِدَةٌ وَمُسَاعِدَةٌ) اونت کے دو حصے سے آسودہ ہوئے ہوتے۔

السفد۔ نرم و ہلکی بارش (اس کا تمام استعمال نہیں ہوتا) کہا جاتا ہے "أَعْطَاهُ اللَّهُ بِسَعْدٍ مُنْفِيًا" یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نرم بارش سے ترو تازہ رکھے۔

السفدائی۔ ایک قسم کی گھاس۔

سَعْدَةٌ (ف) سفد۔ جلا وطن کرنا۔

سَفَسَفَ: الْوَالِدُ: كَوْنُهُ فِي الْوَالِدِ فِي الثَّرَابِ: مَثِي فِي دَهْنًا زَائِدَةً بِالذَّهْنِ: سَرْمِي تِلْ لَكَرْجَبِ كَرْنَا: الدَّهْنُ فِي رَأْسِهِ: سَرْمِي تِلْ لَكَرْنَا:

تَسَفَسَفَ: مِنَ الْاَفْرِ: كَيْسِي مَعَالِهِ سَرْمِي تِلْ لَكَرْنَا فِي الْاَضْ: دَاخِلٌ هُوَا:

سَعِلٌ (س) سَعْلًا: لَا غَرَبَ لَهَا: جَمْرِي وَوَالَا هُوَا: صَفْتِ (سَعِلٌ)

سَعْمَةٌ: الْمَاءُ: كَهَوْنَتْ كَهَوْنَتْ بَانِي بَلَا نَا: سَعْمٌ الْوَالِدُ: يَجِدُ كَوَا تَجِي نَدَا رِيَا: پَرُورْشِ كَرْنَا:

أَسَعْمَةٌ: تَكْلِيْفٌ يَجْعَلُهُ فِي مَبَالِغِ كَرْنَا:

أَسَعِمٌ وَ سَعِمٌ: اَتَجِي نَدَا رِيَا نَا:

الْمُسْتَعِمُّ وَالْمُسْتَعِمَّةُ: اَتَجِي نَدَا رِيَا نَا: نَدَا نَا: نَدَا رِيَا نَا: نَدَا رِيَا نَا:

الْأَسْعَانُ: رُودِي نَدَا رِيَا نَا:

السَّاعِيَةُ: يَجِي كِي لَذِيْ جِيْزِ:

سَفٌّ (ن) سَفِيْفًا: الطَّائِرُ أَوْ السَّحَابُ: زَمِيْنَ سَ قَرِيْبٌ هُوَا كَرْنَا يَا كَرْنَا:

الْحَوْضُ: كَهَجْرِي كِي تِيْوِي سَ بِنَا _____ الْمَاءُ: بِسَتِ بَانِي يُونَا رِيَا رِيَا نَا:

سَفٌّ (س) سَفَا: الدَّوَاءُ السَّوِيْقِي وَ نَحْوَهُمَا: دَوَا يَا سَتُو غِيْرَهُ يَحَا نَا:

أَسَفٌّ: اِسْفَاْفًا _____ الْحَوْضُ: بِنَا الزَّجْلُ: يَحَا نَا: اُوْنِي كَامُوْنِ كِي يَجِيْجِيْزِ نَا: اُوْرْشِ كَرْنَا:

جَا تَا سَ: "أَسَفٌّ إِلَى الْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ" يَعْنِي وَهِيَ كَامُوْنِ كِي قَرِيْبٌ هُوَا _____ الْجِيْزِي: شَكْلٌ يَحَا رَا:

رَبَا _____ الْقَرَسُ: اللِّجَامُ: كَهُوْرُ سَ كِي نَدَا فِي لَكَا نَا _____ الطَّائِرُ أَوْ السَّحَابُ:

زَمِيْنَ سَ قَرِيْبٌ هُوَا كَرْنَا يَا كَرْنَا: كَمَا جَا تَا سَ "مَا أَسَفٌّ مِنْهُ يَسْفِي" اِسْ نَا سَ كِي كِي

الانشاء۔ رات کے حصے۔

السعوة۔ موم۔

السعواي۔ بیداری اور سز پر مبر کرنے والا۔

سَعِي يَسْعِي سَعِيًا: مَعْلٌ كَرْنَا: دُوْرْنَا

إِلَيْهِ: قَصْدٌ كَرْنَا _____ فِي حَاجَةِ

الزَّجْلِ: كَيْسِي كِي حَاجَتِ پُورِي كَرْنِي كِي كُوشِشِ كَرْنَا:

لِلْاَفْرِ: حَاصِلٌ كَرْنِي كِي لِي اِهْتِمَامِ كَرْنَا:

لِيَعَالِيهِ: كَمَا لِي كَرْنَا (سِعَايَةً) صَدَقَاتِ وَغِيْرِهِ

وَصُوْلٌ كَرْنَا (سِعَايَةً وَ سَعِيًا) بِقُلَانِ عِنْدَ

الْاَمِيْرِ: جَعْلٌ خُورِي كَرْنَا: سَعَتِ الْاُمَّةُ: بِدَكَرِي

كَرْنَا: زَنَا كَرْنَا:

سَاعِي: هُوَا: كُوشِشِ كَرْنِي فِي مِتَابَلِهِ كَرْنَا: كَمَا

جَا تَا سَ "سَاعِيْنَ فُلَانٌ فَسَعِيْتُهُ" فُلَانِ نَا

كُوشِشِ كَرْنِي فِي مِتَابَلِهِ كِي اِسْ اِسْ پَر غَالِبِ رِيَا:

أَسْعَى اِسْعَاءً: الزَّجْلُ: كُوشِشِ كَرْنَا:

أَسْعَوِيْهِ: عِلَاشِ كَرْنَا:

اِسْتَسْعَى اِسْتِسْعَاءً: الزَّجْلُ: وَصُوْلٌ

صَدَقَاتِ كِي لِي مَقْرَرٌ كَرْنَا _____ الْقَبْدُ:

اَزَادِي حَاصِلٌ كَرْنِي كِي لِي كَامِ كَرْنَا:

السِعَايَةُ: مَص-جَعْلٌ خُورِي-

السَّاعِي: فَ- مَحْصُلٌ: خِرَاجٌ وَ صَدَقَاتِ

وَصُوْلٌ كَرْنِي وَوَالَا جِ سُعَاةُ السَّاعِي: بُدَا كِي-

الْمُسْعِي: كُوشِشِ- مَسْكٌ- تَصْرَفِ- جِ

مَسَاعٍ-

سَعَبٌ (ن) وَ سَعَبٌ (س) سَعْبًا وَ سَعْبًا وَ

سَعْبًا وَ سَعْبًا وَ سَعْبَةً: يَحَا كَرْنَا: صَفْتِ

(سَاعِيٌ وَ سَعِبٌ وَ سَعْبَانٌ) مَوْنَتْ سَعْبِي: جِ

سَعَابِ-

أَسْعَبٌ: الْقَوْمُ: قَوْمٌ كَا قَطْبِي فِي جَلَا هُوَا:

السَّعَابُ: يَحَا كِي-

الْمُسْعَبُ: جَا نَز-

سَعْبَلٌ سَعْبَلَةٌ: بِسَتِ زَعْمُوْنِ وَوَالَا هُوَا:

الزَّوَسُ: سَرَكُو تِلْ سَ تَر كَرْنَا:

السَّحْمُ: جَرِي يَحَا كَرْنَا سَرَا نَا:

تَسْعَبِلٌ: الذَّرْعُ: زَرَرَهُ پَنِنَا:

الْمُسْعَبِلُ: نَرْمٌ وَوَالَا سَانِ-

سَعِدٌ سَعْدًا: سُوْجَا-

كَهُوْرَا: مَوْنَتْ سَعْفَاءُ: جِ سَعْفٌ-

السَّعْفُ: نَاخِنِ كِي اِرْدُ كَرْدِيْشِ اَكْرَبَا-

السَّعْفُ: فَ- قَرِيْبٌ: كَمَا جَا تَا سَ "مَكَانٌ

مُسَاعِفٌ" قَرِيْبٌ جَلَد-

سَعَلٌ (ن) سَعْلًا وَ سَعْلَةً: كَمَا نَا _____

سَعْلًا: كَامٌ وَغِيْرَهُ كِي لِي سِتِ هُوَا:

أَسَعْلَةٌ: سِتِ بَانَا: كَمَا نِي بِيَا كَرْنَا:

اِسْتَسَعَلْتُ: الْمَرْءُ: يَحْتَجِي جِيْسِي هُوَا:

السَّعَالُ: كَمَا نِي- قَصَبُ السَّعَالِ:

يَحِيْجِيْزِي كِي رِيْغِي-

السِّعَالُ وَ السِّعَالَةُ وَ السِّعَالِي: يَحْتَجِي يَا

بِجُوْتِ- جِ سَعَالِي وَ سَعَالِيَاتِ-

السَّعَالِي: پُورَهُ كَامِ جِ حَشِيْشَةُ السَّعَالِ

كِي نَامِ سَ جِي مَشْهُورِ سَ-

السَّاعِلُ وَ الْمَسْعَلُ: طَلِقٌ يَا طَلِقٌ فِي كَمَا نِي

كِي جَلَد-

سَعَمٌ (ف) سَعْمًا: الْبَعِيْرُ: اُوْنَتْ كَا تِيْزِ جَلَا:

صَفْتِ (سَعْمٌ)

سَعْمَةٌ وَ سَعْمَةٌ: نَدَا رِيَا نَا:

سَيْلٌ (سِعَايَةٌ وَ سَعْمًا) تِيْزِ سَلَابِ-

أَسْعَنُ: بَرَا خِيْمَرِ يَا سَابَانِ بَانَا:

تَسَعَنُ: الْجَمَلُ: خُوبٌ مَوَا هُوَا:

السَّعْنُ: جَرِي- خَاصٌ شَرَابِ-

السَّعْنُ: مَسْكٌ جِ كَا صَفِ حَصَدِ كَا كَرُوْلِ

بَانِي سِ- جِ سَعْنَةٌ-

السَّعْنَةُ: مَارَكٌ- مَخُوْسٌ (مَضٌ) كَمَا نِي كِي

كَثْرَتِ يَا قَلْتِ- كَمَا جَا تَا سَ "مَالُهُ سَعْنَةٌ وَ لَا

فَعْنَةٌ" يَعْنِي اِسْ كِي پَاسِ كِي كِي نِيْسِي-

السَّعْنَةُ: سَابَانِ- اُوْنَتْ كِي بَالِي هُوَا نَا كَا لَكَا

هُوَ اَحَدُهُ- جِ سَعْنُ-

الْمُسْعِنُ: بَرَا وَاوَلِ-

السَّعَانِيْنَ: عِيْسَا يُوْنِ كَا تَوَارِ جِ عِيْدِ فِجِ سَ

پَلِي هُوَا سَ- مَشْهُورِ السَّعَانِيْنِ مَعْجَمِ سَ

سَ- (مَعْرَبٌ)

السَّعُو وَ السَّعُو وَ السَّعُو وَ السَّعُو

وَ السَّعُو وَ السَّعُو: رَا تِ كَا اِيْكَ حَصَدِ

السَّعُو وَ السَّعُو: بِدَرِيَانِ خَلْعِ كَرْنِي وَ اِي

عُوْرَتِ-

حاصل نہیں کیا۔ اَسْفَ النَّظَرُ: تیز نظر سے دیکھنا
السَّيِّ: بعض کو بعض سے ملا کر جوڑنا
الأَفْرُ: قریب ہونا۔ اُيَسَّفُ وَجْهَهُ:
رنگ بدل جانا گویا کہ خاک آلود ہے۔

اِسْتَفَّ الذُّوَاءُ: دوا پھانکنا۔
السِّفُّ والسُّفُّ: ایک قسم کا باریک لہبا
سانپ جو ریکتانوں اور چٹانوں کے درمیان
اچھلتا ہے جس کی وجہ سے عربوں کا گمان تھا کہ وہ
اُڑتا ہے اور اس کے نام القَفَّازَةُ وَالظَّفَّازَةُ بھی
ہیں۔

السُّفَّةُ: کھجور کے پتوں کی ٹوکری۔ ایک مٹھی
گیوں یا ستو وغیرہ۔ مویاف ()
والمُسْفُوفُ: دوا اور بیہوشی کی پتلی۔
السفینف: مہ۔ انہیں کا نام۔ کھجور کے پتوں کی
ٹوکری۔ کجاوہ اور ہودہ کا تنگ۔

السفینفة: کجاوہ باندھنے کی چوڑی تنگ
مِن الخُوَص: کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی
چیز۔ ج سفائف۔
سَفِيت (س) سَفِيتا: بہت پینا اور سیراب نہ
ہوتا۔

السفیت: بے حرکت کمانا۔
سَفِيتَجَةً: بھڑکی دینا۔
السفیتجة: بھڑکی دینا۔ ج سفایح۔
السفیح: ہوا چلنے کی تیزی۔ السفیح: جموت۔
السفیح: چلنے۔ اس کے لیے واحد نہیں۔ کہا
جاتا ہے "ذُرَّ سَفِيتَجًا"

سَفِحا (ف) سَفِحا و سَفُوحًا: الدَّم او
الدَّمْع: خون یا آنسو بہانا۔ گرانہا () سَفِحا
و سَفُوحًا و سَفْحَانًا: الدَّمْع: آنسو گرانہ۔
صفت (سالفح) ج سَوَالِح (جیسے فاریس کی جمع
فَوَارِس)

سَفْح: الزَّجْلُ: غیر مفید کام کرنا۔
سَافِحًا و سَافِحًا: زنا کرنا۔ بد کاری کرنا۔
سَفْحُ الجَبَلِ: دامن کوہ۔ ج سَفُوح۔
الأَسْفَح: وہ شخص جس کے سر کے اگلے حصہ
کے بال گر گئے ہوں۔

السفاح: بہت خون بہانے والا۔ بہت دینے
والا۔ قاور الکلام فصیح۔

السفینح: موٹا کھیل۔ جوئے کے تیروں میں سے
ایک تیر جس کا کوئی حصہ نہیں۔ پورا۔ گون۔

السفاح: مہ۔ کہا جاتا ہے "يُنْتَهَم سَفَاحًا" ان
کے درمیان خوریزی ہے۔ زنا کاری۔ کہا جاتا ہے
"تَزْوُجُ المَرْأَةُ سَفَاحًا" اس نے عورت سے زنا
کاری کی۔

سَفَدٌ (ض) الذَّكْرُ اُنْثَاهُ و سَفِدٌ (س) سَفَادًا و
سَفِدٌ عَلَيَّهَا و سَافِدًا سَفَادًا و مَسَافِدَةٌ: جفتی
کرنا۔

سَفَدٌ: اللحم: گوشت کو بھوننے کے لیے پیخ
میں پرونا۔
اِسْفَدٌ: جفتی کرنا۔

اِسْتَسْفَدَ: التبغیر: اونٹ کے پیچھے سے آکر
سوار ہونا۔

السفؤد: گوشت بھوننے کی پیخ۔ ج سفافید۔
اِسْفِيذًا: ج سفیدہ۔ قلعی۔

سَفَرٌ (ن) سَفُورًا: سفر کے لیے روانہ ہونا
المَرْأَةُ: چہرہ کھولنا۔ صفت (مساہلر)
الصَّبْحُ: روشن ہونا () الحزبُ:
لڑائی کا ٹیم ہونا () سَفَرًا: البیت: گھر کو
جھاڑ دینا () الرنخ الغنیم: ہوا کا بادل کو اڑا
دینا۔

الکتاب: لکھنا () الشئ: جدا جدا
کرنا۔

التبغیر: تاک میں کھیل لگانا۔ کھیت کے پھل
حصہ کو چرانا۔

سَفَرٌ (ن) سَفَرًا و سَفَارَةً و سَفَارَةً يَتَيْن
القَوْمُ: لوگوں میں صلح کرنا۔ صفت (سفیر) ج
سَفَرًا۔

اَسْفَرٌ: چہرہ کھولنا () الضبخ: روشن ہونا۔
الوجه: چہرہ خوبصورت و منور ہونا۔

الحزبُ: لڑائی سخت ہونا () مَقْدَمٌ زَائِبَةٌ:
سر کے اگلے حصہ کے بال جھڑنا () اَسْفَرُ
الشجر: بچے کرنا () التبغیر: جمنی سَفَرَةٌ۔

سَفَرٌ: الزَّجْلُ: سفر کے لیے بھیجنا۔
التبغیر: کھیل لگانا () النَّازُ: آگ بھڑکانا۔

سَافِرًا سَفَارًا و مَسَافِرَةً: اِلَى بَلَدٍ كَذَا: روانہ
ہونا () فَلَانٌ: مرنا۔ سَافِرَةٌ عِنْدَ الحُمَيِّ:

بخارجھوٹا۔

تَسْفَرُ: ابتدائی رات میں آنا چرانا۔

شَيْخًا مِنْ حَاجِبِهِ: کچھ حاصل کرنا
الجِلْدُ: کھال کا اثر پذیر ہونا () المَرْأَةُ:
عورت سے چہرہ کھولنے کو کہنا۔

اِسْفَرُ: سَفَرَةٌ عِنْدَ زَائِبَةٍ: سر سے بال جھڑنا۔
العنیم: بالوں کا پرانہ ہونا۔

الإبلُ: جانا۔

اِسْتَسْفَرُ: المَرْأَةُ: عورت سے چہرہ کھولنے کو
کہنا۔

السفَر: مہ۔ جسم انسانی کا داغ۔ ج سفور اور
کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سَفَرٌ" یعنی مسافر و "قَوْمٌ
سَفَرٌ" یعنی مسافرین و "نَاقَةٌ سَفَرٌ" سڑ کرنے
والی اونٹنی اور سڑج سفر کی ہے جیسے صاحب
کی جمع صَحْبُت۔

السفَر: بڑی کتاب۔ توریت کے ۱۲۱ء میں
سے ایک جز۔ ج اسفار۔

السفَر: مسافت کو طے کرنا۔ غروب آفتاب کے
کچھ بعد کا وقت۔ ج اسفار۔

السفرة: مسافر کا کمانا۔ زاد سفر۔ دسترخوان۔ ج
سفر۔

السفار و السفارة: مہار۔ چڑا یا لوبا جس کو
اونٹ کی تاک پر رکھتے ہیں۔ ج اسفيرة و سفرو
سفارین۔

السافر: فا۔ مسافر۔ ج اسفار و سفرو و سفرة
و سفار و سافر۔ و السافر: کتاب۔ ج
سفرة۔

السافرة: الشافر کا مؤنت۔ ج سوافر۔
مسافرین۔ کہا جاتا ہے "كَتَبْتُ السافرة هُنَا"
یہاں سڑ کرنے والے بہت ہیں اور کہا جاتا ہے
"قَوْمٌ سَافِرَةٌ" سڑ کرنے والی قوم۔

السفیر: دو قوموں کے درمیان صلح کرانے
والا۔ ج سفرة۔ ایلچی۔ مگر سے ہونے والے یا پتے۔
کھتی کا پھل حصہ۔

السفيرة: چاندی یا سونے کا ہار۔ ج سفائر۔
السفارة و السفارة: ایلچی گری۔ قوموں کے
درمیان اصلاح۔

السفارة: جھاڑو دینے سے جمع کیا ہوا کوڑا

السَّفْعُ: آئنی دیک دان۔
 سَفْعُ-السَّفْسُ: آفتاب کا سیاہ داغ۔ سَفْعُ
 الْفُؤْر: بتل کے چروہ کی سیاہ جیاں۔
 السَّوْفَاعُ: لوہی لیشیں۔ مفرور (سافعة)
 الْأَسْفَعُ: سرخی مائل سیاہ رنگ والا۔ مؤنث
 سَفْعَاءُ ج سَفْعُ: شکر۔ جنگلی بتل۔ السَّفْعَاءُ:
 دیک دان کا ایک پایہ۔ حَصَامَةُ سَفْعَاءُ: سبز
 گردن والا کبوتر۔
 مَسْفُوعٌ-الْعَيْنُ: دھنسی ہوئی آنکھ والا۔ فُؤْرٌ
 (مَسْفُوعٌ) چروہ میں سیاہ جتیں والا بتل۔ كَسِيئٌ
 مَسْفُوعٌ: آہن پوش ہمار جو لوہے کے رنگ سے
 کالا ہو گیا ہو۔
 سَفْعَةٌ (ن) سَفْعًا: طمانچہ مارنا۔ سَفْعُ النَّبَابِ:
 دروازہ بھینرنا۔
 أَسْفَعُ-النَّبَابِ: دروازہ بند کرنا۔
 الْحَائِكُ الْفُؤْبُ: جلاہے کا پڑے کو گف بنا۔
 سَفْعٌ (ك) سَفْعًا: الثَّوْبُ: پڑے کا گف
 ہوتا۔
 اِنْسَفَعُ-النَّبَابِ: دروازہ کا بھینر جانا۔
 السَّفْعَةُ: طمانچہ۔ تھپڑ۔
 الْمَسْفُوعُ: گف پڑا۔ زَجَلٌ سَفِيحٌ الْوُجْهِ:
 بے حیا مرد۔
 السَّفِيحَةُ: سونے وغیرہ کا باریک تار۔ نگڑی کا
 چوڑا سا ٹکڑا جس پر چٹائی وغیرہ بیٹھی جاتی ہے۔
 سَفَكٌ (ض) سَفَكًا: الحَاةُ او الدَّمُ: پانی یا
 خون بہانا۔ الْكَلَامُ: بہت بولنا۔
 سَفَكَةٌ: کسی کے سامنے شفکہ پیش کرنا۔
 (دیکھئے شفکة)
 اِنْسَفَكَ: گرتا۔ بہتا۔
 السَّفُوكُ والسَّفَاكُ: بہت خون گرانے والا۔
 اور کہا جاتا ہے "مَسْفُوكٌ او سَفَاكٌ بِالْكَلَامِ"
 وہ بڑا جھوٹا ہے۔
 السَّفِيكُ: گریا ہوا۔ ہمایا ہوا۔
 زَجَلٌ (مَسْفُوكٌ) بڑا باتونی مرد۔
 الشَّفَاكَةُ: وہ چیز جو مسمان کے سامنے خدا سے
 پہلے دل بھلاؤ اور وقت گزارنے کے لیے پیش کی
 جائے۔
 سَفَلٌ (ن) وسَفِلٌ (س) وسَفَلٌ (ك)

سَفْسُقٌ-الظَّائِرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔
 السَّفْسُقَةُ والسَّفْسُقَةُ: مِنَ السَّيْفِ: گھوار
 کا جو ہرج سَفْسُقٌ۔ کہا جاتا ہے "ظَرْفِيٌّ وَاصِحُّ
 السَّفْسُقِ" واضح نشانات کا راستہ۔
 السَّفْسُقِيُّ: ہر لمبی پیر۔
 السَّفْسُوقَةُ: راستہ کا درمیان۔ مشابہت۔ کہا
 جاتا ہے "فِيهِ سَفْسُوقَةٌ مِنْ أَبِيهِ" اس میں اس
 کے باپ کی مشابہت ہے۔ و "سَفْسُوقَةُ
 السَّيْفِ": گھوار کا جو ہر۔
 سَفْطُ (ن) سَفْطًا-السَّحْكَةُ: مچھلی کے منٹے
 آتا رہتا۔
 سَفْطُ (ن) سَفْطًا: سخی دیا کیزہ نفس ہوتا۔
 سَفْطُ-الْحَوْضِ: حوض کو درست کرنا اور بلند
 بنانا۔
 تَسَفْطُهُ: تھوڑا تھوڑا پینا۔ جذب کرنا۔
 اِسْتَفْطَ-الشَّيْءُ: کل لینا۔ کل لی جانا۔
 السَّفْطُ: مچھلی کا سفٹا۔ نوکری۔ جامہ دان۔ ج
 اَسْفَاطُ۔
 السَّفَاطُ: نوکری بنانے والا۔
 سَفَاطَةُ-الْبَيْتِ: سالان خانہ۔
 السَّفِيْطُ: پاکیزہ نفس۔ سخی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 سَفِيْطُ النَّفْسِ" وہ سخی دیا کیزہ نفس ہے۔ کینہ اور
 ہرے قدر چیز (مضد) درخت سے گڑی ہوئی سبز
 کھجور۔
 مُسْفَطٌ-الزَّاسِ: بڑے سرو والا۔
 سَفْعَةٌ (ف) سَفْعًا: طمانچہ مارنا۔ الشَّيْءُ: نشان
 لگانا۔ بِنَاصِيْبِهِ: پیشانی کے بال پکڑ کر بھینچنا
 و سَفَعْتِ: السَّمُوْمُ وَجْهَهُ لَوْ كَا چہرہ کو
 جھلس کر رنگ بدل دینا۔
 سَفْعٌ (س) سَفْعًا: سرخی مائل سیاہ ہونا۔
 سَفَعَةٌ: ایک دوسرے کو بھینر مارنا۔ سینہ سے
 لگانا۔ ایک دوسرے کو بہانا۔ لڑائی کرنا۔
 تَسَفَعٌ-بِالنَّارِ: آگ تاپنا۔
 اِسْتَفَعُ-الرَّجُلُ: کپڑا پھینا۔
 اِسْتَفَعُ-لَوْثُهُ: خوف وغیرہ سے رنگ بدل جانا۔
 السَّفْعُ-مَهْ-كَبْرًا: رنگا ہوا کپڑا۔ ج سَفْعُ-ع
 السَّفْعُ والسَّفْعَةُ: سرخی مائل سیاہی۔
 السَّفْعُ والسَّفْعَةُ: دانہ اندرائن۔

کرکٹ۔
 السَّفَاوَةُ: مسافر لوگ۔
 السَّفَاوَةُ: کرہ کی شکل کی ایک مچھلی جس میں
 کاتے بہت ہوتے ہیں اور اس کو "فَتَقْدُ الْمَاءِ"
 بھی کہتے ہیں۔
 السَّفَاوَةُ: تختی کہ جس پر حساب لکھیں اور
 نقل کرنے کے بعد مٹادیں۔
 الْمُسَاوِرُ: جنگلی بتل۔ الْمُسَاوِرَةُ: گائے۔
 الْمُسْفَرُ وَالْمُسْفَارُ: بہت سفر کرنے والا۔
 مؤنث مِسْفَرَةٌ۔
 الْمُسْفُورُ: سفر سے تھکا ہوا۔
 الْمُسْفُورَةُ: جھاڑو۔ ج مسافر و مسافر
 الْوُجْهِ: چہرہ کے وہ حصے جو نمایاں ہوتے ہیں۔ کہا
 جاتا ہے "مَا أَحْسَنَ مَسْفُورَ وَجْهِهِ وَمَسَاوِرَ
 وَجْهِهِمْ" ان کے چہرہ کا نمایاں حصہ کس قدر
 خوبصورت ہے۔
 السَّفْرَجَلُ: بی۔ ج سَفَاعُ ج اور کبھی
 سفارجل بھی کہا جاتا ہے۔ واحد (سَفْرَجَلَةٌ)۔
 السَّفْسِيْرُ: دلال۔ خادم۔ نظلم۔ ظریف و
 زیرک۔ ماہر لوہار۔ داروغہ۔ ج سَفَايِسُ و
 سَفَايِسِيْرُ۔
 السَّفْسِظَةُ والسَّفْسِظَةُ: استدلال و قیاس
 جس کی بنیاد مخالط پر ہو۔ ج سَفْسِظَاتُ اور
 نسبت کے لیے (سَفْسِظِيٌّ وَسُؤْفَسِظَالِيٌّ)
 السُّؤْفَسِظَائِيَّةُ: ایک فرقہ جو محسوسات و
 بدیہیات کا انکار کرتا ہے۔
 سَفْسَفٌ-الدَّقِيْقُ: آٹا چھانٹا۔
 الْعَمَلُ: کام کو اچھی طرح سے نہ کرنا۔ سَفْسَفَتُهُ
 التَّزْيِيْعُ ج زَمِيْنٌ سے آتا۔
 السَّفْسَافُ: ناکارہ و ردی چیز۔ کہا جاتا ہے
 "فَلَا تَنْ سَفْسَافَ الْكَلَامِ" فلاں لغو کو ہے۔ امر
 حقیر۔ مِنَ الدَّقِيْقِ: اُلے کا وہ باریک حصہ
 جو غبار کی طرح اُڑے۔ مِنَ التَّرَابِ:
 باریک مٹی۔ مِنَ الشَّيْءِ: ردی و ناقص
 شعر۔
 الْمُسْفِسِفَةُ: ہوا جو غبار کو اُڑائے۔
 الْمُسْفِسِفُ: مرد کم عطا و لئیم۔
 جُؤْعٌ سَفَايِسُ تَحْتِ بَحْوَكِ۔

أَسْقَبَتِ النَّفَاةُ: اکثر زینچ جانا۔

تَسَاقَبَتِ الْبَيْتُوتُ: قریب قریب ہونا۔

السَّقْبُ: ج. اسْقَبٌ وَسَقَابٌ وَسُقُوبٌ۔

سُقْبَانٌ: اونٹنی کانوزائیدہ بچہ اور مثل میں بولا

جانا ہے "أَذَلُّ مِنَ السُقْبَانِ بَيْنَ الْحَلَايِبِ"

دودھ دینے والی اونٹیوں کے درمیان نوزائیدہ

بچوں سے زیادہ ذلیل۔۔۔ ج. سُقْبَانٌ وَ

(السَّقْبِيَّةُ) خیمہ کا ڈنڈا۔ السَّقْبُ: لمبی موٹی

سر سبز شاخ۔ مَنَزَلٌ (سَقَبٌ) قریب منزل۔

السَّاقِبُ: نا۔ قریب۔ دور (شد)

المِسْقَبُ وَالمِسْقَابُ: نوزائیدہ اونٹ کے

بچے کی ماں۔ المِسْقَابُ: اکثر زینچ جننے والی

اونٹنی۔

سَقَدَ (ض) سَقَدُوا وَسَقَدُوا السَّقَدُ: الفَرَسُ:

ڈبلا کرنا۔ چھریا کرنا۔

السَّقْدَةُ: ج. سَقْدَدٌ (السَّقْدِيَّةُ) ج.

سُقَيْدَاتٌ: سرخ رنگ کا ایک پرندہ جس کو

فارسی میں زورک کہتے ہیں۔

السَّقْدُدُ: ڈبلا کیا ہوا گھوڑا۔ چھریا کیا ہوا

گھوڑا۔

سَقَرْتُهُ (ن) سَقَرْتُ السَّمْسُ: جھلتا۔

أَسْقَرْتُ: التَّخَلُّةُ: درخت خرما سے شیرہ

ہوتا۔

السَّقْرُ: مہ۔ شکر۔ شیرہ۔

سَقَرٌ: دوزخ کا علم (کلمہ غیر منصرف ہے) کہا

جاتا ہے "جَاءَ (بِالسَّقْرِ) وَالبَقْرُ وَبِنَاتٍ غَيْرِ"

اس نے سفید جھوٹ کہا۔

السَّقْرَةُ: سورج کی سخت تپش۔ ج. سَقَرَاتٌ۔

السَّقَاوُورُ: گرمی۔ جانوروں کو داغنے کا لہوا۔

السَّقَارُ: غیر مستحق کو بہت لعنت کرنے والا

کافر۔ ج. سَقَارَةٌ۔

سَقَسَقَ: الطَّائِرُ: بیت کرنا۔

سَقَطَ (ن) سَقُوطًا وَسَقَطًا: گرنا۔ کہا جاتا

ہے "سَقَطَ مِنْ عَيْنِي" وہ میری آنکھوں سے گر

گیا۔ یعنی حقیر ہو گیا۔ سَقَطَ فِي الْكَلَامِ: غلطی

کرنا۔۔۔ التَّخْمُ: غائب ہونا۔۔۔ الحَرْزُ: گرمی

پڑنا۔۔۔ الحَرْزُ عَنَّا: دور ہونا۔۔۔ عَلِيٌّ ضَالِبٌ:

موقع بازیافت سے مطلع ہونا۔۔۔ القَوْمُ إِلَيَّ:

نازل ہونا۔ اترنا۔۔۔ الْوَالِدُ مِنْ بَطْنِ أَبِيهِ: نکلنا۔

باہر آنا۔ سَقَطَ فِي يَدِهِ: نام ہونا۔ کہتے ہیں "عَلَى

الْخَيْبِرِ سَقَطَتْ" حقیقت کار کے جاننے والے

کے پاس تم پہنچے۔

سَقَطَ وَاسْقَطَ: فنی دیدم۔ لغزش کرنا۔ غلطی

کرنا۔ نام ہونا۔ حیران ہونا۔

سَاقِطَةٌ وَسَاقِطًا وَسَاقِطَةٌ: گرانا یا پے بہ پے

گرانا۔۔۔۔۔ الْحَدِيثُ: باری باری گفتگو کرنا۔۔۔۔۔

الْفَرْسُ الْخَيْلُ: دوڑ میں سبقت کرنا۔۔۔۔۔

الْفَرْسُ الْعَدُوُّ: گھوڑے کا ست دوڑنا۔

أَسْقَطَةٌ: گرنا۔ اسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ السَّقَطَ:

عورت کا تمام بچہ گرانا۔۔۔۔۔ لَهْ بِالْكَلامِ: گالی

دینا۔ بیوہ بات کرنا۔۔۔۔۔ الزَّجَلُ: کسی کے ساتھ

ایسی کارروائی کرنا جس سے وہ حقیر ہو جائے کہ

کوئی غلطی کر بیٹھے یا جھوٹ بولے یا اپنے راز کو

ظاہر کر دے۔ کہا جاتا ہے "مَا أَسْقَطَ فِي كَلِمَةٍ"

اس نے کسی کلمہ میں غلطی نہیں کی۔

تَسَقَطَةُ: لغزشوں کو ڈھونڈنا۔

الْخَيْبِرُ: تھوڑی تھوڑی خبر حاصل کرنا۔

تَسَاقَطُوا إِسْاقِطَ الشَّيْءِ: پے بہ پے کرنا۔

السَّقَطُ: برف یا شبنم لیم۔۔۔۔۔ وَالسَّقِطُ

وَالسَّقِطُ: نا تمام بچہ جو وقت سے پہلے گر جائے۔

السَّقِطُ: خیمہ کا گوشہ۔ پرندہ کا بازو۔ کہا جاتا ہے

"رَفَعَ الطَّائِرُ سَقِطِيهِ" پرندہ نے اپنے دونوں بازو

اُغْمَاةً۔ بالوں کا کنارہ جو زمین پر گرنا ہوا دکھائی

دے۔

السَّقِطَةُ: زور سے گرنا۔ ٹھوکر۔ لغزش۔

السَّقَطُ: ناکارہ دے برکت چیز۔ ردی سلمان۔

رسوائی۔ تحریر یا قول یا حساب کی غلطی۔ ج.

أَسْقَاطٌ۔

السَّاقِطُ: نا۔ فردایہ۔ کمینہ۔ ج. سَقَاطٌ وَسَقَاطٌ

: مونٹ ساقیظہ۔

السَّاقِظَةُ: کم عقل کمینہ۔ وہ بھل جو کچھ سے

پہلے گر جائے۔ ج. سَوَاقِظٌ۔

السَّقَاطُ: مہ۔ ساقیظ کی جمع۔ لغزش۔ وہ بھل جو

کچھ سے پہلے گر جائے۔ پرندہ کا بازو۔

السَّقَاطُ وَالسَّقَاظَةُ: گرمی ہوئی چیز۔

السَّقُوطُ: گرانا۔

السَّقِيطُ: بھوقوف۔ کم عقل۔ مونٹ

سَقِيطَةٌ: برف۔ شبنم۔ ج. اولہ۔

السَّقَاطُ: بست کرنے والا۔ بست تیز تلواری جو

متفرق سے پہلے زمین پر گرے۔۔۔۔۔

وَالسَّقِطِيُّ: ردی سامان بیچنے والا۔ کہا جاتا ہے۔

السَّقَاظَةُ: بست کرنے والی۔ سَقَاظَةُ الْبَابِ

عِنْدَ الْمُؤَلِّمِينَ: دروازہ کی چوٹی۔

الْمَسْقِطُ وَالْمَسْقِطُ: کرنے کی جگہ۔ ج.

مَسْقِطٌ۔ مَسْقِطٌ زَائِسُ الزَّجَلِ: جائے

پیداؤں۔ المَسْقِطُ: پرندہ کا بازو۔

الْمَسْقِطَةُ: کرنے کا سبب۔

مُنْقِطَةُ الْأَخْبَالِ: بڑی مصیبت۔ الْأُمُّ

(الْمَسْقَاطُ) نا تمام بچہ کرانے والی ماں۔

السَّقِطِيُّ: ماہر نقاد۔

سَقَعَةٌ (ف) سَقَعًا: کسی کو حقیر مارنا۔ کسی کو

سخت ست کرنا۔ کسی کے ساتھ بڑائی سے پیش آنا۔

سَقَعُ الدَيْنُكُ: مرغ کا یاگ کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا

أَذْرَى أَيْنُ سَقَعٍ" میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔

أَسْقَعُ لَوْثُهُ: رنگ کا بدل جانا۔

السَّقَعُ: گھڑ زمین کا گوشہ۔ ج. اسْقَاعٌ۔

السَّقَاعُ: اونٹنی کو تیل سے بچانے کا چھتریا۔

برقع۔ اونٹنی کی ناک کو باندھنے کی چیز۔۔۔۔۔

وَالْمِسْقَعُ: لغت ہے۔ صِقَاعٌ وَوَضْعٌ مِمَّنْ

الْأَسْقَعُ: چڑیا کی مانند ایک پرندہ جس کا سر

سفید اور پر سبز ہوتے ہیں اور جو پانی کے قریب

رہتا ہے۔ ج. اسْقَاعٌ وَدُمْنُونَ اور حاسدوں سے

دور رہنے والا۔

السَّوْقَعَةُ: ٹرید کے اوپر کا حصہ۔۔۔۔۔ مِنْ

الزَّيْءِ وَوَالْجِمَارِ وَوَالْعِمَامَةِ: وہ حصہ جو سر

سے متصل ہوا اور جلدی سے میلا ہو جائے۔

السَّقِطْرِيُّ: لہا آوی یا اونٹ۔

السَّقِطِمُ: چوبیا۔

سَقَفٌ (ف ن) سَقْفًا وَسَقْفٌ: الْبَيْتِ:

چھت ڈالنا۔

سَقَفٌ (ف ن) سَقِيفِيٌّ وَسَقِيفٌ وَتَسَقَفٌ:

بشپ بننا۔

أَسْقَفَهُ وَسَقَفَهُ: عَلَيْهِمُ: بشپ بنانا۔

سَقِيفٌ (س) سَقْفًا: جھاکڑ کے ساتھ لہا ہونا۔

صفت (السَّقْف) مؤنث سَقْفَاءُ ج سَقْفٌ
سَقْفَتِ الرَّجُلِ: پاؤں کا دائیں جانب کو جھکا۔
السَّقْفُ: مِنَ الْبَيْتِ: چھت۔ ج سَقُوفٌ۔
آسمان۔

السَّقِيفُ: چھت۔ ج سَقِيفٌ وَسَقِيفٌ۔
السَّقِيفَةُ: چھت پائے کا پتھرا تختہ۔ سونے یا
چاندی کا لہبا و باریک تار۔ اونٹ کی پھلی۔ ج
سَقَائِفٌ۔ کہتے ہیں "هَذِهِ السَّقُوفُ سَقَائِفٌ
الْبَيْعِيزُ" سونے اونٹ کی پھلیوں کو توڑ دیا۔
السَّقِيفَةُ: ڈیوڑھی۔

الْأَسْقُفُ: موٹی اور لمبی ڈیڑھی والا۔
----- مِنَ الْجَمَالِ: بے بال والا اونٹ۔
مِنَ الظُّلْمَانِ: شیروں گردن والا شتر مرغ۔
الْأَسْقُفُ: بَشِپ پادری۔ جس کا درجہ قمیص
سے اُوچا اور مطران سے کم ہوتا ہے۔ مطران۔
ج آسَاقِفَةٌ وَآسَاقِفٌ (کھریوتانی ہے)۔

الْأَسْقُفِيَّةُ: بَشِپ کا درجہ۔ بَشِپ کی رعیت۔
بَشِپ کی جانب منسوب۔
الْمُسْقُفُ: غم۔ لہبا۔
السَّقِيُّ: آدمیوں کی غیبت کرنے والا۔
سَقْلَةٌ (ن) سَقْلًا: صیقل کرنا۔ آئینہ وغیرہ کو جلا

رنا۔
سَقْلٌ (س) سَقْلًا: الْبَيْعِيزُ: کھریوں دانہنی
جانب کو کچی والا ہونا۔
السَّقْلُ: کمر۔

السَّقِيلُ: مِنَ الرَّجَالِ: پتلی کمر والا مرد۔
----- مِنَ الْخَيْلِ: پیٹھ میں کم گوشت والا گھوڑا۔
السَّقِيلُ وَالسَّقِيلُ وَالْإِسْقِيلُ وَالْإِسْقِيلُ:
جنگلی پیاز۔

الْإِسْقَالَةُ: اونچی جگہ پر پہنچنے کے لیے پاڑھ۔ ج
أَسْقِيلٌ۔
سَقْلِيَّةٌ: چھاڑنا۔

السَّقْلَبُ: علاقہ خزر کے باشندوں کی ایک
جماعت جو بعد میں یورپ کے ملکوں میں پھیل گئی
تھی۔ واحد (سَقْلَبِي) ج سَقْلَابِيَّةٌ۔
السَّقْلَاطُ: جنیلی۔ ایک اولیٰ کپڑا ہے جس کو
عورتیں ہودہ رو ڈالتی ہیں۔ کتان کا نقش کپڑا جس
پر گھومھی کا نقش ہو۔

سَقِيمٌ (س) وَسَقِيمٌ (ك) سَقِيمًا وَسَقِيمًا
سَقِيمًا وَسَقِيمًا: بیمار ہونا یا دیر تک بیمار رہنا۔
صفت (سَقِيمٌ) ج سَقِيمًا وَسَقِيمًا۔
أَسْقِمُهُ وَسَقِمُهُ: بیمار ڈالنا۔ وَأَسْقِمُ الرَّجُلَ:
بیمار گھروا لانا ہونا۔

السَّقْمُ وَالسَّقْمُ: ج أَسْقَامٌ وَالسَّقَامُ
بیماری۔

السَّقِيمُ وَالسَّقِيمُ: بیمار۔ كَلَامٌ سَقِيمٌ: نا
درست کلام۔ مَكَانٌ سَقِيمٌ: خوفناک جگہ۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ سَقِيمٌ الصُّدْرُ عَلَيَّ أُخِيَّةٌ" وہ اپنے
بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔

الْمِسْقَامُ: بھگرت بیمار رہنے والا۔
أَرْضٌ مَسْقَمَةٌ: بہت بیماریوں والی زمین۔
السَّقْمُونِيَّةُ: ایک دوا کا نام۔

أَسْقَنَ: سَقِنَةً: تلوار کو پورے طریقے سے
صیقل کرنا۔
الْأَسْقَانُ: باریک کمریں۔

السَّقْنَقُورُ: ایک جانور کا نام ہے۔
سَقَى (ش) سَقِيًا: الرَّجُلُ: پلانا۔ کسی سے
"سَقَاكَ اللَّهُ يَا سَقِيًا لَكَ" کہنا۔ عیب لگانا۔ غیبت
کرنا۔۔۔۔۔ النَّوْبُ: گھرا رنگنا۔

سَقَاَهُ اللَّهُ الْغَيْثُ: بارش بھیجنا۔۔۔۔۔ بَطْنُهُ: بیماری
کی وجہ سے پیٹ میں پانی جمع ہونا۔
سَقِيٌّ: قَلْبُهُ عِدَاوَةٌ: دل کا دشمنی سے بھر پور
ہونا۔۔۔۔۔ بَطْنُهُ: بیماری کی وجہ سے پیٹ میں پانی
جمع ہونا۔

سَقَى سَقِيَّةً: الرَّجُلُ: بہت پلانا۔ کسی سے
"سَقِيًا لَكَ" کہنا۔۔۔۔۔ النَّوْبُ: کپڑے کو بار بار
رنگ میں ڈبونا۔

أَسْقَى اسْقَاءً: الرَّجُلُ: پانی پینے کیلئے دینا۔ پانی
کی طرف رہنمائی کرنا۔ جانوروں کو یا زمین کو
سیراب کرنا۔ کسی سے "سَقَاكَ اللَّهُ" یا "سَقِيًا
لَكَ" کہنا۔ اسْقَاهُ اللَّهُ الْغَيْثُ: بارش بھیجنا۔
اسْقَى فَلَانًا: عیب لگانا۔ غیبت کرنا۔

سَاقَاةٌ وَ تَسَاقِيًا: ایک دوسرے کو پلانا۔
وَسَاقَاةٌ فِي أَرْضِهِ: کسی کو زمین کی دیکھ بھال کے
لئے مقرر کرنا اس شرط پر کہ زمین کا کچھ قلمہ ملے گا
اور اسی سے ضریکہ مساقاة ہے۔

تَسَقَى سَقِيًا: سیراب ہونا۔ کہا جاتا ہے
"تَسَقَى الضَّبْعُ" اس نے رنگ کو جذب کر لیا۔
أَسْقَى اسْقَاءً وَاسْتَسْقَى:

أَسْتَسْقَاءُ: ہنہ: کسی سے پانی طلب کرنا۔
أَسْتَسْقَى مِنَ التَّهْوَرِ: دریا سے پانی لینا۔
وَاسْتَسْقَى الرَّجُلُ: بیماری کی وجہ سے پیٹ و
جسم میں پانی جمع ہونا۔ تے کرنا۔ اسْتَسْقَى
الرَّجُلُ: کسی سے "سَقَاكَ اللَّهُ يَا سَقِيًا لَكَ"
کہنا۔

السَّقِيُّ وَالسَّقِيُّ: وہ پانی جو مرض کی وجہ سے
پیٹ میں جمع ہو جائے۔ السَّقِيُّ: سیراب کی ہوئی
کھیتی یا زمین۔ پانی کا حصہ۔ کہا جاتا ہے "كَمْ سَقِيٍّ
أَرْضِكَ" تمہاری زمین کے لیے پانی کا کتنا حصہ
ہے۔ بادل۔ ج أَسْقِيَّةٌ۔

سَقِيًا وَسَقِيًا: لِفُلَانٍ: دعا کے موقع پر بولتے
ہیں۔ تقدیر عبارت یہ ہے "سَقَاَهُ اللَّهُ سَقِيًا"
اللہ اس کو سیراب کرے۔

السَّقَاءُ: ٹھک۔ ج أَسْقِيَّةٌ وَأَسْقِيَاتٌ وَ
أَسَاقِيٌ۔

السَّقِيَّةُ وَالسَّقِيَّةُ: پانی پلانے کی جگہ۔ پانی
پینے کا برتن (.....) وَالسَّقِيَّةُ: پانی جمع کرنے کی
جگہ۔ حوض۔

السَّاقِي: قَاحُ سَقَاةٍ وَسَاقِيُونَ وَسَقَاءُ وَ
سَقِيٌّ۔

السَّاقِيَّةُ: السَّاقِي كَامُؤْنِثٌ۔ چھوٹی ندی۔ ج
سَوَاقِيٌّ وَسَاقِيَاتٌ۔

السَّقِيَّةُ: السَّقِيُّ وَالْإِسْتَسْقَاءُ كَالْأَسْمِ۔
السَّقِيُّ: دریاؤں کے پانی سے سیراب کیا ہوا۔
تیز بارش والا بادل۔ درخت خرما اور بروی۔ واحد
(سَقِيَّةٌ)۔

السَّقَاءُ: بہت پلانے والا۔ مؤنث سَقَاءَةٌ وَ
سَقِيَّةٌ۔

الْإِسْتَسْقَاءُ: پانی طلب کرنا۔۔۔۔۔ عِنْدَ
الشَّرْعِ: پانی طلب کرنے کیلئے نماز پڑھنا اور دعا
کرنا۔۔۔۔۔ عِنْدَ الْأَطْيَاءِ: ایک بیماری کا نام۔

الْمَسْقِيُّ: سیرابی کا وقت۔
الْمَسْقِيُّ: دریا کے پانی سے سیراب کی ہوئی
کھیتی۔ (اور وَمَطْمَئِيٌّ بَارَشُ كَالسَّقِيَّةِ)۔

سُكُوِيٌّ وَسُكْرَانَةٌ ج سَكْرُوِيٌّ وَسَكْرَانِيٌّ وَ سَكْرَانِيٌّ

سُكْرُوَةٌ: گلا گھونٹنا۔۔۔ الباب: دروازہ بند کرنا۔

أَسْكُرُهُ: الشَّرَابُ: پھیرنا۔ مست کرنا۔ تَسَاكُرُوٌّ: مستی ظاہر کرنا۔ نَشْرٌ: آوری چیز استعمال کرنا۔

السُّكْرُ: شراب اور ہر نشہ آور چیز۔ سرکہ۔ السُّكْرُ: دریا کا بند۔ جس چیز سے دریا کو بند کیا جائے۔ ج سَكْرُوْرٌ۔

السُّكْرُ: مہ۔ نشہ۔ مستی۔ سَكْرُوَةٌ: المَوْتِ اَوِ الهَيْجِ: موت یا غم کی سختی۔ ج سَكْرَاتٌ۔

السُّكْرَةُ: ایک قسم کا دانہ جو گیہوں کے کھیت میں ہوتا ہے اور گیہوں کے مشابہ گراس سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے نیند بہت آتی ہے۔

السُّكْرُ: شکر (سُكْرُوَةٌ) اس سے خاص ہے۔ السَّاكِرُ: فَا۔ لَيْلٌ سَاكِرٌ: بے ہوا والی رات۔ مَوْنَةٌ سَاكِرَةٌ۔

السُّكْرَارُ: نشہ آور چیزوں کا پیمانہ والا اور بیچنے والا۔

السُّكْرِيٌّ وَالسُّكْرُوْرٌ وَالسُّكْرِيَّتُ: بہت نشہ والا۔

السُّكْرَانُ: ایک قسم کی گھاس جو ہمیشہ سبز رہتی ہے اور اس کے دانہ کو کھلایا جاتا ہے۔ السُّكْرُ جَوُّ السُّكْرُجَةِ: چھوٹی پھالی۔ سَكْرَسَكٌ: کزوری ہونا۔ دلیہ ہونا۔ تَسَكْرَسَكٌ: الیہ: عاجزی کرنا۔

سَكْعٌ وَسَكْعٌ (ف س) سَكْعَاوٌ وَسَكْعَاوٌ۔ علمی میں پھرتا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْرِي أَيْنَ سَكْعٌ" میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ تَسَكَّعٌ: فی أَضْرِهِ أَوْ سِتْرِهِ: حیران پھرتا۔ مدت تک باطل میں رہنا۔۔۔ الظَّلْمَةُ: اندھیرے میں ٹاپک ٹوٹیاں مارنا۔

السَّاعِجُ: فَا۔ (و السَّاعِجُ) مرو مسافر اچھی۔ زَجَلٌ (سَكْعٌ) تمہیر مرو۔ السَّاعِجُ: ایک قسم

کی نباتات۔

المُسْكَنَةُ: وہ معاملہ جس میں کوئی تدبیر بحال نہ دے۔

أَرْضٌ مُسْكَنَةٌ: بغیر کسی علامت و نشان کے زمین۔

مَسْكَفٌ (س) سَكْفًا: الباب: دروازے میں چوکھٹ لگانا۔

تَسَكَّفَ: الباب: چوکھٹ پر قدم رکھنا۔ أَسَكَّفَ: موجی بننا۔

السَّنَافِيفُ: فَا۔ دروازہ کے اوپر والی لکڑی جو دہلیز کے مقابل ہوتی ہے۔

الأُسْكُفُ: مِنَ العَيْنِ: پلکوں کے اُٹنے کی جگہ یا نچلا ہونا۔ کہا جاتا ہے "وَقَفَّتِ الذَّمْعَةُ عَلٰی أُسْكُفِ عَيْنِهِ" آنسو اس کی آنکھوں میں پلک اُٹنے کی جگہ ٹھہر گیا۔

الأُسْكُفَةُ وَالأُسْكُوفَةُ: دہلیز۔ الأُسْكُفُ وَالإِسْكَافُ وَالأُسْكُوفُ وَالسَّنَافِيفُ وَالسَّنَافِيفُ: موجی۔ و (السَّنَافِيفَةُ) موجی کا پیشہ۔

السُّكْلُ: ایک قسم کی بڑی سیاہ مچھلی۔ ج أَسْكَالٌ وَسِكْلَةٌ۔

سَكَمٌ (ن) سَكْمًا: کزوری سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔ صفت (سَكَمٌ)۔

الإِسْكَيمُ: راہب کا پتھر یا راہب کا سر ڈالنے کا پتھر (کلمہ معرب ہے)۔

سَكَنٌ (ن) سَكْنُوْنَا: ٹھہرنا۔۔۔ إِلَيْهِ: آرام لینا۔۔۔ عَنَهُ: الوَجْعُ: درد کا دور ہونا۔۔۔ الخَزَفُ: بغیر حرکت کے ہونا۔ جزم والا ہونا۔۔۔ سَكْنًا وَ سَكْنِيٌّ: الدَّارُ وَ فِي الدَّارِ: اقامت کرنا۔ رہنا۔ صفت (سَاكِنٌ) ج سَكَاوٌ وَ سَاكِنُوْنٌ۔

سَكْنٌ (ن) سَكْنُوْنَا: اَوِ سَكْنٌ (ك) سَكْنُوْنَا: مسکین ہونا۔ سَكْنٌ: المتحركُ: ٹھہرانا۔۔۔ الخَزَفُ: جزم دینا۔

سَاكِنَةٌ: فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ: ساتھ ہو رہا یاں کرنا۔ أَسْكَنٌ: الزَّجَلُ: مسکین ہونا۔۔۔ غَرِيبٌ وَ مَسْكِينٌ بَنَانًا۔۔۔ الدَّارُ: کسی کو پودو یا پاش کرانا۔

الفَقْرُ فَلَانًا: بے حرکت بنانا۔

تَسَكَّنَ وَ تَمَسَكَنَ: مفلس و مسکین ہونا۔ تَسَكَّنَ: مطمئن و صاحب وقار ہونا۔ (سکینہ سے ماخوذ ہے)۔

تَسَاكَنُوا فِي الدَّارِ: باہم مل کر رہنا۔ اِسْتَسْكَنَ اِسْتِكْنَانَةً وَ اِسْتَسْكَنَ: ذلیل و عاجز ہونا۔

السُّكْنُ: گھروالے۔ گھر۔ السُّكْنُ: آگ۔ رحمت۔ برکت۔ ہر وہ چیز جس سے اُس حاصل کیا جائے۔ الأَسْكَانُ کا واحد

بعضی غذاؤں خوراک (۔۔۔) و السُّكْنِيٌّ: رہنے والا۔ رہنے کی جگہ۔

السُّكْنَةُ: سر اور گردن کے اتصال کی جگہ۔ ج سَكِنَاتٌ اور کہا جاتا ہے "تَوَكَّنْتُهُمْ عَلٰی سَكِنَاتِهِمْ" میں نے اُن کو اُن کی حالت سابقہ پر چھوڑ دیا۔

السُّكْنِيَّةُ: وقار۔ اطمینان۔ بیت۔ السُّكْنِيْنُ: ہلکا پلکا تیز رفتار گدھا۔ السُّكْنِيَّةُ: گدھی۔

السُّكْنُوْنُ: عدم حرکت۔ آرام۔ جزم۔ السُّكْنَانُ: مِنَ السُّفِيْنَةِ: پتوار۔ ج سَكَاوَاتٌ۔

السُّكْنِيْنُ: چھری۔ ج سَكَاكِيْنٌ وَ (السُّكْنَانُ) چھری بنانے والا۔ السُّكْنِيَّةُ: چھری۔ اطمینان۔ وقار۔

المَسْكِينُ وَ المَسْكَنُ: گھر۔ مکان۔ منزل۔ ج مَسَاكِيْنٌ۔

المَسْكَنَةُ: فقیری۔ ذلت۔ کزوری۔ المَسْكِيْنُ: وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو یا وہ شخص جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اس کے عیال کے لیے کافی ہو۔ ذلیل و مغلوب۔ ج مَسْكِيْنُوْنٌ وَ مَسَاكِيْنٌ مَوْنَةٌ مَسْكِيْنٌ وَ مَسْكِيْنَةٌ۔

سَلَّ (ن) سَلًّا وَ اِسْتَلَّ: الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ: کسی چیز میں سے آہستہ آہستہ نکالنا۔۔۔ السَّنِيفُ: تلوار سوتلا۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَلَّ فَلَانٌ بِكَذَا" فلاں شخص فلاں چیز کو چپکے سے لے گیا۔

سَلَّ (ض) سَلًّا: گرے ہوئے یا تھوڑا والا

ہوتا۔ صفت فکر (سَلَّ) بوصف مؤنث (سَلَّتْ)
سَلَّ۔ بیل کی بیماری میں جلا ہو کر ڈبلا ہوتا۔
صفت (مَسْلُوب)
أَسَلَّ اسلألاً۔ اللہ فلأنا۔ بیل کی بیماری میں
جلا کرنا۔۔۔ السَّيِّءُ۔ چپکے سے چرانا۔
تَسَلَّلَ وَإِنْسَلَّ۔ مِنَ الزَّحَامِ۔ بھیڑ میں چپکے
سے کھسک جانا۔ کہا جاتا ہے: "أِنْسَلَّ فَبَدَأَ الْفَرَسِ
مِنْ نَبِيهِ" اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی رتی نکل
گئی۔
السَّلَّ۔ مہ۔ عطر فروشوں کا ذبیہ۔ ج۔ سیلاب۔
السَّلَّ وَالسَّلَّ وَالسَّلَّ۔ لاغری میں بیل کی
بیماری۔

السَّلَّة۔ پوشیدہ چوری۔ سل کی بیماری۔ حوض
کا نقص۔ نوکری عطر فروشوں کا ذبیہ۔ ج۔ سیلاب۔ کہا
جاتا ہے "أَتَيْنَاهُمْ عِنْدَ السَّلَّةِ وَعِنْدَ السَّلَّةِ"
یعنی ان کے پاس ہم تلوار کھینچنے کے وقت پہنچے
(سَلَّةٌ بِاللَّحْ أَسْمَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّةً بِالْكَسْرِ أَسْمَ نَوْعٍ هُوَ)
"فَرَسٌ سَرِيعٌ السَّلَّةُ تَمِزُ وُزْنَهُ وَاللَّهْوُ"
السَّلِيلُ۔ کھینچا ہوا۔ سوتا ہوا۔ ولد۔ کہا جاتا ہے
"هُوَ سَلِيلُ الْأَكَارِمِ" وہ بزرگوں کی اولاد ہے۔
خاص شراب۔ حرام مغز۔ کوہان۔ وادی میں پانی
بننے کی جگہ۔ گھوڑے کا مغز۔ پھیرا۔ ج۔ سلان۔
السَّلِيلَةُ۔ بیٹی پینے کے گوشت کا لبا کھانا ایک
قسم کی لمبی چھلی۔

السَّلَالَةُ۔ کسی چیز سے نکالا ہوا۔ خلاصہ نسل
ولد۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سَلَالَةُ ظَلِيئَةٍ وَمِنْ سَلَالَةِ
ظَلِيئَةٍ"

السَّلَالُ۔ فا۔ چور۔ وادی میں پانی بننے کی تنگ
جگہ۔ ج۔ سلان و سَوَالٍ۔
السَّلَالُ۔ نوکری بنانے والا۔ چور۔
الْأَسَلُ۔ چور۔

السَّلَّةُ۔ سوجا۔ ج۔ مَسَلَاتٌ و مَسَلٌ
مَسَلَةٌ فَرَعُونَ لِبَابِ رِيحِ سَتُونَ جَو فَرَعْتَهُ مَصْرِي
يَادُكَرُوهِي۔

سَلَا (ف) سَلَا وَاِسْتَلَا۔ السَّمَنُ۔ گھی
صاف کرنا۔ سَلَا السَّمَنُ۔ تَلَّ سے تیل نکالنا۔
کہا جاتا ہے "سَلَاهُ مَاتَهُ سَوَاطِطٌ" اس نے اس کو
سو کوڑے مارے۔ سَلَا الْجَدْعُ۔ جس سے کانٹے

دور کرنا۔

السَّلَاءُ۔ سَلَاءٌ كَالِاسْمِ۔ صاف کیا ہوا گھی۔ ج۔
أَسْلَفَةُ۔

السَّلَاءُ۔ کھجور کے درخت کا کانٹا۔
واحد (سَلَاءَةٌ) درخت خرما کے کانٹے کی مانند تیز
کا پھل۔ ایک قسم کا پتہ۔

سَلَبٌ (ن) سَلَبًا و سَلَبًا۔ السَّيِّءُ۔ زبردستی
چھیننا۔۔۔ الْقَضْبَةُ أَوْ الشَّجْرَةُ۔ چھیلنا۔۔۔
السَّيْفُ۔ تلوار تنگی کرنا۔ صفت (سَالِبٌ) ج۔
سَلَابٌ و مَسَالِبُونَ مَوْنُثٌ سَالِبَةٌ۔ ج۔ مَسَالِبَاتٌ
و مَسَالِبٌ۔۔۔ وَاِسْتَلَبَ تَوْبَهُ؛ كَيْفَ كَوَجَّهِيْنَ
لِيَا۔

سَلَبٌ (س) سَلَبًا۔ ماتم کے کپڑے پھینا۔
أَسْلَبْتُ الشَّجْرَةَ۔ پتے یا پھل گر جانا۔

(۔۔۔ و سَلَبْتُ) النَّاقَةَ أَوْ الْمَرْأَةَ۔ مرے ہوئے
بچنے والی ہونا یا تمام بچے گرنا۔ صفت (سَلِبٌ و
سَلُوبٌ) ج۔ سَلْبٌ و سَلَابٌ و سَالِبٌ و
مُسَلَّبٌ و مَسَلَّبٌ و مُسَلَّبَةٌ)۔

أَسْلَبَ۔ بہت تیز چلنا (اس کو عموماً ناقہ کے
لیے استعمال کیا جاتا ہے)۔

السَّلْبُ۔ مہ۔ ہلکی تیز چال۔ فَرَسٌ سَلْبٌ
الْقَوَائِمِ۔ پہلی ٹانگوں والا گھوڑا۔

السَّلْبُ۔ چھینی ہوئی چیز۔ تم کہتے ہو "أَخَذَ
سَلْبَ الْقَيْطِيلِ" اس نے مقول کے سامان کو لیا۔
ج۔ أَسْلَابٌ۔ لہذا درخت۔۔۔ الذَّيْبِيحَةُ۔۔۔ ذبح
شہدہ جانور کا چمرا پانچ اور بیٹ۔

۔۔۔ مِنَ الْقَضْبَةِ۔ نرکل کا چھلکا۔ السَّلْبُ؛
درخت کا ریشہ یا چھلکا جس سے رسیاں بنائی جاتی
ہیں۔

السَّلْبُ۔ لہا۔ لہا۔
السَّلْبَةُ۔ برتنکی۔

السَّلَابُ۔ بہت چھیننے والا۔ رسیوں کے لیے
درخت سے ریٹے نکلنے والا۔

السَّلَابَةُ و السَّلَابُوتُ۔ بہت چھیننے کا مادہ (یہ
ذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے)۔

السَّلَابُ۔ ماتی سیاہ لباس۔ کہتے ہو "لَيْسَتْ
الشَّكْلَى السَّلَابُ" تم کردہ فرزند عورت نے
ماتی لباس پہنا۔ ج۔ سَلْبٌ۔

السَّلْبُ۔ بل کا پتہ۔

السَّلْبُ۔ عمل یا مال کھویا ہوا۔ شَجْرَةٌ
سَلْبٌ؛ درخت جس کی شاخیں اور پتے دور کر
دیئے گئے ہوں۔ ج۔ سَلْبِيٌّ۔

الْأَسْلُوبُ۔ طریقہ۔ راستہ۔ روش۔ ج۔
أَسَالِبُ۔ الْأَسْلُوبُ سَبْ؛ ناک کی بلندی اور
اسی سے ہے "أَنفُهُ فِي الْأَسْلُوبِ" اس کی ناک
وہیں بائیں نہیں ہوتی۔ شکم و مغز کے لیے کہا
جاتا ہے۔

سَلَّتْ (ض) (ن) سَلَّتَا۔ الجعبي۔ آنتوں کو ہاتھ
سے نکالنا۔۔۔ السَّخْرُ أَوْ الزَّوْاسُ۔ بال یا سر
موندنا۔۔۔ الْمَرْأَةُ الْخِضَابُ عَنْ يَدَيْهَا۔۔۔
چھڑا دینا۔ آنا دینا۔۔۔ السَّيِّءُ۔ کانٹا۔

۔۔۔ كَوَزُ مَارَتَا جَيْسَ "سَلَّتَتْ مَاتَهُ سَوَاطِطٌ"
اس نے اس کو سو کوڑے مارے۔۔۔ بَسَلَجُهُ
بیٹ کرنا (۔۔۔ وَاِسْتَلَّتْ) الْقَضْبَةَ؛ پیمانہ کو انگلی
سے چاٹنا۔

أَسْلَبْتُ۔ چپکے سے خبری میں نکل جانا۔
السَّلْتُ۔ جو یا بغیر چھلکے کا۔

السَّلَاتَةُ۔ وہ چیز جو دور کی جائے یا نکل جائے۔
پیمانہ کو صاف کرنے کے لیے انگلی سے جو چاٹا
جائے۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ مِنِّي فَلَتَتْ وَاِسْلَبَتْ"
وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔

الْأَسْلَبْتُ۔ وہ شخص جس کی پوری ناک کٹ
گئی ہو۔ مؤنث سَلَّتَتْ ج۔ سَلَّتْ۔ اِمْرَأَةٌ
سَلَّتَتْ؛ مہندی نہ لگانے والی عورت۔

السَّلْبُوتُ۔ نفع۔ سر موندنا ہوا۔ جس سے
گوشت علیحدہ کر دیا گیا ہو۔

السَّلِيمُ۔ بلا۔ تخی۔ بھوت۔ سخت قحط سال۔
بہت بوڑھا اونٹ۔ تھوڑی اور حقیر چیز۔ کہا جاتا
ہے "مَا أَصَابَ مِنْهُ سَلِيمٌ" اس نے اس سے
کچھ نہیں پایا۔

السَّلِيمِيْنُ۔ کھجور کا درخت کہ جس کے ارد گرد
گڑھا کھود دیا گیا ہو تاکہ اس میں پانی ٹھہر جائے۔

سَلَجٌ (س) سَلَجًا و سَلَجَانًا۔ اللُّقْمَةُ۔ لقمہ
لگانا (۔۔۔ و سَلَجْتُ (ن) سَلَجًا) الْإِبِلُ؛ سَلَجٌ
گھاس کے چرنے سے پیٹ چلنا۔ سَلَجٌ
الْفَصِيلُ النَّاقَةَ؛ دو دو پیتا۔

”هُوَ سَلِسُ التَّوَلِّ“ اسے پیشاب کے روکنے کی طاقت نہیں۔

السَّلْسِيلُ - نرم - ج سَلْسِيلٌ و سَلْسِيلَةٌ - ج - سَلْسِيلَاتٌ - شرب - خوشگوار آسانی سے حلق سے اترنے والا پانی - جنت کے ایک چشمہ کا نام - سَلْسَلٌ سَلْسَلَةٌ - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ایک کو دوسرے سے جوڑنا اور اسی سے ہے - ”سَلْسَلٌ فَلَانًا إِلَى فَلَانٍ“ اس نے فلاں کی نسبت فلاں کی جانب کی۔۔۔ الماءُ: پانی کو پست زمین میں بنانا اور کہا جاتا ہے ”مَاءٌ سَلْسَلٌ طَعَامًا“ اس نے کھانا نہیں کھایا۔

تَسَلَّسَلُ - الماءُ: پانی کا پست زمین میں بہنا۔۔۔ الفؤبُ: کپڑے کا پھینے سے پتلا پڑنا۔۔۔ فَوْزٌ السَّيْفِ: تلوار کے جوہر کا چمکتا۔

السَّلْسَلُ والسَّلْسَالُ والسَّلْسِيلُ - خوشگوار پانی - آسانی سے حلق سے نیچے اترنے والی عمدہ شرب۔

السَّلْسَلَةُ - مہ - کوہان کا لبا کھڑا۔ السَّلْسَلَةُ - زنجیر - کوہان کا لبا کھڑا - ج سَلْسِيلٌ التَّبْوِيقِ: چوڑائی میں کوندے والی بجلی۔ سَلْسِيلٌ الكِتَابِ: کتاب کی سطریں۔

السَّلْسَلُ - من العنق: دھاری دار کپڑا۔ شَعْرٌ سَلْسَلٌ: گھنگھریالے بال۔ سَيْفٌ سَلْسَلٌ: پتھدار تلوار (۔۔۔۔۔ والسَّلْسَلُ) من العنق: خراب بنا ہوا کپڑا یا بوسیدہ کپڑا۔

سَلِطٌ (س) و سَلِطٌ (ک) سَلَاظَةٌ و سَلُوظَةٌ: زبان دراز ہونا۔

سَلِطَةٌ عَلَيْهِ: کسی پر غالب بنانا۔ قدرت دینا۔ قابض بنانا۔

تَسَلَّطَ عَلَيْهِ: کسی پر غالب ہونا۔ قادر ہونا۔ قابض ہونا۔

السَّلْطُ - سخت - زبان دراز۔ لمبی زبان۔ السَّلِطُ - تیر کا پھل جس کے بیج میں اُھار نہ ہو۔ ج - سَلَاظٌ۔

السَّلْطُ - لمبی ٹانگیں۔

السَّلَاظَةُ - ملکیت - قدرت۔

السَّلَاظَةُ - باریک لبا تیر - گھاس بھوسہ پاندرے

کا کپڑا۔ ج - سَلِطٌ و سَلَاظٌ۔

السَّلِيطُ - سخت - ہر چیز میں سے تیز - عمدہ ذوقین کا تیل - ہر قسم کے دانہ کا تیل - لِسَانٌ سَلِيطٌ: لمبی زبان۔ زَجَلٌ سَلِيطٌ: زبان دراز مرد۔ السَّلِيطُ: فصیح زبان آدمی (یہ صفت مرد کے لیے باعث مدح اور عورت کیلئے باعث مذمت ہے) اِمْرَأَةٌ سَلِيطَةٌ: زبان دراز اور بد زبان عورت۔ اِمْرَأَةٌ (سَلْطَانَةُ اللِّسَانِ و سَلْطَانَةٌ) تیز زبان و زبان دراز عورت۔

السَّلْطَانُ - حجت - تم کہتے ہو ”لَهُ سَلْطَانٌ شَيْئٍ“ اس کے لیے روشن حجت ہے۔ قبضہ - قدرت - بادشاہ۔ ج - سَلَاظِيْنٌ۔

سَلْطَنَةُ سَلْطَنَةٌ - بادشاہ بنانا۔ تَسَلَطَنَ - بادشاہ بنا۔

المَسْلُطُ - کبھی کا دندانہ۔ ج - مَسَالِيطٌ۔

زَجَلٌ مَسْلُوظٌ - اللحية: سبک رخسار مرد۔ اِسْلَظُحٌ - الوادئ: وادی کا وسیع ہونا۔۔۔۔۔ الزَجَلُ: شے کے تل گرنا یا چٹا ہونا۔

۔۔۔۔۔ الشَّيْءُ: لمبی چوڑی ہونا۔

السَّلَاظِحُ - چوڑا۔ السَّلْطُحُ - چمٹا ہوا۔

السَّلْطُحُ و المَسْلُظُحُ: کشادہ نفا۔ اِسْلَظُحٌ - الزَجَلُ: چٹ لینا۔

السَّلْطُظُحُ - چمٹا ہوا۔ السَّلْطُظُحُ - پاگل کی طرح گفتگو میں جمالت کرنے والا۔۔۔۔۔ السَّلْطُظُحُ: لبا مرد۔

سَلْعٌ (ف) سَلْعًا - الرَّاسُ: سر پھاڑنا۔۔۔۔۔ جِلْدُهُ بِالتَّارِ: کھال کو جلا کر داغ دار کرنا۔

سَلْعٌ (س) سَلْعًا - الزَّجَلُ: برص والا ہونا۔۔۔۔۔ قَدَمُهُ: قدم کا پھٹنا۔

اَسْلَعُ - پھینے ہوئے سرو والا ہونا۔ جسم میں زخم والا ہونا۔

سَلْعَةٌ - پھاڑنا۔ تَسَلَعٌ - عَقَبَةٌ: ایزدی کا پھٹنا۔ اِنْسَلَعٌ - پھٹنا۔

السَّلْعُ - مہ - پیر کی بوائی۔ ج - سَلْوَعٌ - واحد (سَلْعَةٌ) (۔۔۔۔۔ والسَّلْعُ) مثل ہم عمر۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا سَلْعٌ ذَاكٌ“ یہ اس کے مثل ہے و

السَّلْعُ - مہ - پیر کی بوائی۔ ج - سَلْوَعٌ - واحد (سَلْعَةٌ) (۔۔۔۔۔ والسَّلْعُ) مثل ہم عمر۔ کہا جاتا ہے

”هَذَا سَلْعٌ ذَاكٌ“ یہ اس کے مثل ہے و

السَّلْعُ - مہ - پیر کی بوائی۔ ج - سَلْوَعٌ - واحد (سَلْعَةٌ) (۔۔۔۔۔ والسَّلْعُ) مثل ہم عمر۔ کہا جاتا ہے

”هَذَا سَلْعٌ ذَاكٌ“ یہ اس کے مثل ہے و

السَّلْعُ - مہ - پیر کی بوائی۔ ج - سَلْوَعٌ - واحد (سَلْعَةٌ) (۔۔۔۔۔ والسَّلْعُ) مثل ہم عمر۔ کہا جاتا ہے

”هَذَا سَلْعٌ ذَاكٌ“ یہ اس کے مثل ہے و

”غَلَامَانِ سَلْعَانِ“ دو ہم عمر لڑکے۔ اور ایسا ہی غَلْمَانٌ اَسْلَاعٌ۔۔۔۔۔ فِی الْجَبَلِ: دراڑ۔ ج - اَسْلَاعٌ و سَلْوَعٌ۔

السَّلْعُ - مہ - ایک کڑوا درخت۔ ایک ہدمہ ہیزی۔ ایک تم کا لیلو۔ جلد میں جلنے کا داغ۔

السَّلْعَةُ و السَّلْعَةُ - زخم جو جلد کو پھاڑ دے۔ ج - سَلْعَاتٌ و سِلَاغٌ۔

السَّلْعَةُ - سامان و سامان تجارت۔ ج - سِلْعٌ (۔۔۔۔۔) و السَّلْعَةُ و السَّلْعَةُ - بدن کا پھوڑا یا گوشت اور کھال کے درمیان غدود جیسی زیادتی۔ جو تک۔

السَّلْعُ - برص کی بیماری والا۔ کپڑا۔ پھینے ہوئے پیر والا۔ کھال میں جلنے کا داغ۔ مؤنث سَلْعَاءٌ - ج - سَلْعٌ۔

السَّلْوَعُ - کڑوا لیلو۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ اَمْرٌ مِّنَ السَّلْوَعِ“ وہ ایلوے سے زیادہ کڑوا ہے۔

السَّلْيَعَةُ - طبعیت۔ کہا جاتا ہے ”اِنَّهُ لَكُرَيْمٌ السَّلْيَعَةُ“ وہ شریف طبعیت ہے۔

المَسْلَعُ - رہبر و رہنما۔

المَسْلُوعُ - جسم پر پھوڑے والا یا غدود جیسی زیادتی والا۔

المَسْلُوعَةُ - واضح راستہ۔

مَسْمٌ مَسْلَعٌ - بہت تیز ہر۔

السَّلْعُافُ - کھیل لکڑیاں جن کو درخت کے ارد گرد لگا دیتے ہیں اور جن سے درندوں کا شکار کرتے ہیں۔

المَسْلَعُفُ - سخت۔

السَّلْعَامُ - کشادہ حلق والا۔ بڑے پیٹ والا۔ لمبی ناک والا۔ بھیڑیا۔ اَبُو سَلْعَاعَةَ: بھیڑیے کی کنیت ہے۔

سَلْعَنٌ فِی عَدُوِّهِ: تیز و ڈرتا۔

سَلْعٌ (ف) سَلْعًا - رَامَهُ: کسی کے سر کو پھل دینا۔

سَلْعَتٌ (ف) سَلْوَعًا - البَقْرَةُ او الشَّاةُ: گائے یا بکری کے کھلی کے دانت لگانا۔ صفت (سَالِعٌ)

الاسْلَعُ - گھرا سرخ۔ مرض برص والا۔ لیشم۔

مِنَ اللَّحْمِ: کچا گوشت۔

السِّلْفُ۔ بیوقوف۔ ست۔ غنہناک بھیڑیا۔
بت کھانے پینے والا مرد۔ اشتر گھوڑا۔ مؤنث
سِلْفَةٌ۔

سَلْفٌ سَلْفَةٌ۔ تیز روڑا۔

سَلْفَةٌ۔ گناہ۔

السِّلْفَانُ۔ بمعنی سِلْفَانٌ۔

سَلْفٌ (ن) سَلْفًا۔ الْأَرْضُ: زمین کو زراعت
کے لیے تنگ سے ہموار کرنا۔

الْمَرْأَةُ: توشہ دان پر تیل ملنا۔

سَلْفٌ (ن) سَلْفًا و سَلْفًا: گزرتا۔ آگے
ہوتا۔ تم کہتے ہو "سَلْفٌ لَكَ عَمَلٌ صَالِحٌ" اس
سے عمل صالح کا مسدور پہلے ہوا۔

و "سَلْفٌ الْقَوْمِ" وہ قوم سے آگے ہو گیا۔

سَلْفَةٌ: مَالًا: قرض دینا۔ الشَّيْءُ: بھٹی
دینا۔ الضَّيْفُ: سمان کے سامنے ناشتہ
پیش کرنا۔ الزَّجْلُ: ساند کھانا۔ (دیکھئے
سلفہ)

أَسْلَفَ: الْأَرْضُ: زمین کو زراعت کیلئے تنگ
سے ہموار کرنا۔ مَالًا: قرض دینا۔

فِي الشَّيْءِ: قبضہ کرنا۔ الشَّيْءُ: کسی کو کوئی
چیز سہرو کرنا۔ أَسْلَفَتِ الْمَرْأَةُ: بیٹیاں سال کی
ہوئی۔ صفت (مُسْلِفٌ) (یہ عورتوں ہی کے لیے
مخصوص ہے۔)

مَسْلَفَةٌ: فِي الْأَمْرِ: برابری کرنا۔ هُنَّ
الْأَرْضُ: ساتھ ساتھ چلنا۔ الْجَمَلُ: آگے
بڑھنا۔

تَسَلَّفَ و اسْتَسَلَّفَ: الْمَالُ: قرض لینا۔
تَسَلَّفَ الزَّجْلُ: ساند کھانا (دیکھئے سلفہ)

تَسَالَفَ: الزَّجْلَانُ: ہم زلف ہونا۔ یہ دونوں
مرد (سِلْفَان) کے جاتے ہیں۔

اسْتَسَلَّفَ: الْمَالُ: قرض لینا۔

السَّلْفُ: مَعَهُ: توشہ دان۔ ج سَلُوفٌ
وَأَسْلَفُ۔

السِّلْفُ: چڑا۔ سِلْفُ الزَّجْلِ: ہم زلف ج
أَسْلَافٌ۔

السِّلْفُ: مَعَهُ: قرض۔ ہر عمل صالح پیش کردہ۔
السِّلْفُ: گزشتہ آباء و اجداد۔ و مذہب
السِّلْفُ: حقدین کے مذہب۔ ج أَسْلَافٌ۔

السِّلْفُ: چڑا۔ ہم زلف۔ زَجْلٌ سِلْفٌ: گزرا
ہوا مرد۔ ج أَسْلَافٌ: أَرْضٌ سَلْفَةٌ: کم درختوں
والی زمین۔

السِّلْفُ: چکور کا چوڑہ۔ ج سِلْفَانٌ و سِلْفَانٌ۔

السِّلْفَةُ: ہر وہ چیز جس کو خدا سے پہلے وقت
گزاراری کے لئے کھایا جائے۔ کھانا جس کو آنے

والے کے لیے محفوظ رکھیں۔ جماعت حقدین۔
چری موزے کا استر جو باریک چڑے کا ہو۔ ج

سَلْفٌ تنگ سے ہمواری ہوئی زمین۔ کہا جاتا ہے

"جَاؤُوا سَلْفَةً سَلْفَةً" وہ یکے بعد دیگرے آئے۔

السَّلَافُ و السَّلَافَةُ: نچوڑنے سے پہلے جو خود

بخود سے (یہ بہترین شراب ہے) سَلَافٌ

الْمُسْكِرُ: مقدمہ لکھنا۔ سَلَافَةٌ كَثَلٌ شَيْءٌ

عَصْرَةٌ: ہر نچوڑی ہوئی چیز کا ابتدائی حصہ۔ ج

سَلَفَاتٌ۔

الْأَسْلُوفَةُ: دامادی۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ

أَسْلُوفَةٌ" ان کے درمیان رشہ داری ہے۔

السَّلَافُ: فا۔ گزرا ہوا۔ پیش رفتہ۔ تم کہتے ہو

"كُنَّا ذَلِكَ فِي سَلَفِ الْأَيَّامِ" یہ گزشتہ زمانہ

میں تھا۔ ج سَلْفٌ و سَلُوفٌ۔

السَّلَافَةُ: گزری ہوئی۔ گردن کا وہ حصہ جو بالی

لنگنے کی جگہ ہے۔ سَلَافَةُ الْفَرَسِ: گردن کا اگلا

حصہ۔ ج سَوَافٌ۔

السَّلُوفُ: مِنَ الْإِبِلِ: گھاٹ پر جاتے ہوئے

آگے آگے رہنے والا اونٹ۔ مِنَ الْخَيْلِ:

تیز رفتار گھوڑا۔ سَنَهُمْ سَلُوفٌ: سب تیز۔ ج

سَلْفٌ۔

السِّلْفُ: پیش رو۔ جماعت حقدین۔ ج

سَلُوفٌ۔

المُسْلِفُ: بیٹیاں سالہ عورت۔

المُسْلِفَةُ: وہ اوزار جس کو زمین ہموار کرنے

کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جس کا نام بیگا۔ بیٹلا۔

سراون ہے۔

المُسْلُوفَةُ: ہمواری ہوئی زمین۔

السَّلْفُ: دیر و فراخ سینہ۔ بیباک و زبان دراز

عورت۔

سَلَقٌ (ن) سَلَقًا: النَّبِيضُ أَوْ النَّبْلُ: اٹھنے یا

سبزی اُبلانا۔ جوش دینا۔ سَلَقَهُ بِالْكَلَامِ: بدزبانی

سے تکلیف پہنچانا۔ قرآن مجید میں ہے
"سَلَقُواكُمْ بِالْحَيْثُ جَدِيدًا" تم کو وہ لوگ تیز تیز
زبانوں سے طعنے دیتے ہیں۔ بِالرُّوْحِ: نیزہ

مارنا۔ بِالسُّوْطِ: مار کر کھال اُڑھو دینا۔

سَلَقَ اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ: گوشت ہڈی سے جدا

کرنا۔ عَلِيْدَهُ: کرنا۔ الشَّيْءُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ: گرم پانی

سے بال، اون وغیرہ دور کرنا۔ الدَّابَّةُ

الزَّائِكَةُ: باطن ران کو چھیل دینا۔

الْمَرْأَةُ: توشہ دان پر تیل ملنا۔ النَّبِيُّ

الْتِبَاتُ: جلا دینا۔ الزَّجْلُ: چت بچاؤنا۔ تم

کہتے ہو "أَخَذْتَهُ لِسَلْفَةٍ لِقَاءَهُ" میں نے اس کو

پکڑا اور چت بچھا دیا۔ الْغُزُو فِي الْغُزُوَةِ:

کسی چیز کے دست میں لکڑی لگانا۔ الْقَدَمُ فِي

الظَّرْفِ: قدم کاراستے میں نشان ڈالنا۔

الزَّجْلُ: دیوار چھنا۔

سَلَقَ السِّلْفَةَ وَ عَلِيَهَا: سلیقہ پر پیدا کیا جانا۔

أَسْلَقَ: الْغُزُو فِي الْغُزُوَةِ: کسی چیز کے دست

میں لکڑی داخل کرنا۔ لگانا۔ الزَّجْلُ: مادہ

بھیڑیے کا لکار کرنا۔

تَسَلَّقَ: چت سونا۔ الْجِدَارُ: دیوار پر

چھنا۔ دیوار چھانڈنا۔ عَلِيٌّ فَرَّاشُهُ: وردیا

غلم سے تڑپانا۔ بے قرار ہونا۔

إِسْلَقَ: اللِّسَانُ: زبان کا چھیل جانا۔

سَلَقَتْهُ سِلْفَانَةٌ: چت لانا۔ سَلَفَيْتُهُ

بِالرُّوْحِ: نیزہ مارنا۔

إِسْتَلَقَى: اسْتَلَقَا: وَ اسْتَلَقَى: اسْتَلَقَا: چت

لینا۔ فَعَلَى وَ اِفْتَعَلَى وَ اِفْعَلَى: کے اوزان

مطہقات رباعی سے ہیں۔)

السَّلَقُ: مَعَهُ: (و السَّلَقُ) زخم کا داغ۔

و السَّلَقُ: ہموار و عمدہ زمین۔ کشادہ راستہ۔ ج

أَسْلَاقٌ و سِلْفَانٌ و سِلْفَانٌ۔

السَّلَقُ: چندر۔ پانی بننے کی جگہ۔ بھیڑنا۔ ج

سَلْقَانٌ و سِلْفَانٌ۔

السِّلْفَةُ: مادہ بھیڑنا۔ ج سَلَقٌ و سَلَقٌ۔

السِّلْفَةُ: زبان دراز عورت۔ بُدِيٌّ جَوَّكُهُ اِثْمٌ

دے چکی ہو۔

السَّلَاقَةُ: مِنَ النِّسَاءِ: دو ہتھ مارنے والی۔

داویلا کرنے والی عورت۔ ج سَوَالِقٌ۔

السَّلَاقُ - زبان کی چڑکی پھسیاں یا دانت کی جڑوں کی خراش۔ پوٹوں کی موٹائی، سرخی و زخم کے ساتھ۔

السَّلَاقَةُ - بد زبانی۔

السَّلَاقَةُ - دواؤں کا جو شانہ۔

السَّلَاقِي - راستہ پر قدم وغیرہ کے نشانات۔

السَّلْوَقِيُّ والسَّلَاقِي - مِنَ الْكِلَابِ - ایک خاص قسم کا فکاری کتا۔

السَّلْوَقِيَّةُ - السَّلْوَقِيُّ کا مؤنث۔ جہاز کے کپتان کے بیٹھے کی جگہ۔ السَّلْوَقِيَّةُ مِنَ الذُّنُوعِ - وہ زہر ہیں جو عین کے ایک علاقہ سلوق کی جانب منسوب ہیں۔

السَّلَاقُ - اسم مبالغہ - حَبِطٌ (سَلَّاقٌ) وَ مَسْلُوقٌ وَ مَسْلَاقٌ بِرَأْسِ الْبَحْرِ -

السَّلَاقُ - نھرائیوں کی ایک عید (کلمہ سرائیہ ہے)۔

السَّلِيقُ - چھوٹے درختوں کے گے ہوئے پتے۔ چھتے کی لمبائی میں شہد کی ایک مقدار۔

السَّلِيقِيُّ الظَّرِيقِيُّ - راستہ کا پیلون۔ سَلِيقٌ -

السَّلِيقَةُ - طبیعت۔ ج سَلَّاقِي - ابالی ہوئی سبزی۔

السَّلِيقِيَّةُ - سلیقہ کی جانب منسوب۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَتَكَلَّمُ بِالسَّلِيقِيَّةِ" - وہ بغیر کیچھے ہوئے بالطح تفتگو کرتا ہے۔ و "إِضْطَرَبَ كَلَامُ

الْعَرَبِ وَ غَلَبَتِ السَّلِيقِيَّةُ" - یعنی وہ لوگ سلیقہ سے تفتگو کرتے ہیں۔ بغیر اس کے کہ اعراب کا قصد کریں اور غلطی سے نیچے کا ارادہ کریں۔

السَّلِيقُ - تیز رفتار اونٹنی۔

سَلَقَدَ - الفَرَسَ - دولا کرنا۔

السَّلَقْدُ - دولا کرنا ہوا گھوڑا۔

السَّلْقُ - سخت جگہ۔ نر شتر مرغ۔

السَّلْقَعُ - اسْتَلْقَاعًا - البُرْقُ - بجلی کا پراگندہ

کوندنا۔ الحَصَى - انگریزوں کا تائب آفتاب

سے گرم ہونا۔

السَّلْبِقَاعُ - پراگندہ کوندنے والی بجلی۔

سَلَقَمَ سَلْقَمَةً - دانت کڑکڑانا۔

السَّلْمُ - شیر۔ سخت ٹھوڑی اور لمبی ناک والا

اونٹ۔

السَّلْقَامَةُ - مادہ بھیڑیا۔

السَّلَاقِيمُ - شیر۔

سَلَّكَ (ن) سَلَّكَ وَ سَلَّوْكَ - الْمَكَانَ - داخل

ہونا۔ الطَّرِيقِ - راستہ کی اتباع کرتے ہوئے

چلنا۔ وَ اسْتَلَّكَ الشَّيْءَ فِي الشَّيْءِ - کسی چیز

کو کسی چیز میں داخل کرنا۔

سَلَّكَ الْمَكَانَ وَ اسْتَلَّكَ الْمَكَانَ وَ فِيهِ وَ

عَلَيْهِ - کسی جگہ میں داخل کرنا۔ وَ مِنْ كَلَامِ

الْمَوْلِيِّ بْنِ سَكَّكَ الْغَزْلُ - سوت کو چرخیہ پر

چڑھانا۔

إِنْسَلَّكَ - فِي الشَّيْءِ - کسی چیز میں داخل ہونا۔

السَّلْكُ - لَزِي - ج سَلَّوْكَ وَ اسْتَلَّكَ -

السَّلْكُ - سگ خور یا چکور کا چوزہ۔ مؤنث

سَلْكَةٌ ج سَلْكَانٌ -

السَّلْكَةُ - سلائی کا دھاگا۔ ج سَلْكٌ وَ ج

اسْتَلَّكَ وَ سَلَّوْكَ -

السَّلْكِيُّ - نیزہ کی سیدھی ضرب۔ اور کہا جاتا

ہے "أَمْرُهُمْ سَلْكِي" - یعنی ان کا معاملہ ایک

طریقہ پر ہے۔

الْمَسْلُوكُ - راستہ۔ ج مَسَالِكٌ -

الْمَسْلُوكَةُ - دھجی جو کپڑے کے کنارے سے

پھاڑی جائے۔

الْمَسْلُوكَةُ - چرخہ۔ (مولد)

الْمَسْلُوكُ - تحیف و لاغر۔

سَلِمَ (س) سَلَامَةً وَ سَلَامًا - مِنْ غَيْبِ او

أَقْفٍ - نجات پانا۔ بری ہونا لَدَ الْمَالِ - مخصوص ہونا

اور کہتے ہیں "لَا بَدَى تَسَلَّمَ مَا كَانَ كَذَا" - یعنی

نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جو تمہیں محفوظ رکھتی

ہے "ایسا نہیں تھا اور خطاب کے تشبیہ و جمع "تذکیر

و تانیث کے لحاظ سے "بَدَى تَسَلَّمَانِ وَ

تَسَلَّمُونَ وَ تَسَلِّمِينَ" - استعمال کرتے ہیں اور

عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ "إِذْ هَبْ بَدَى تَسَلَّمَ" - یعنی

سلامتی کے ساتھ جاؤ۔

سَلَمْتُهُ (ن) سَلَمًا - الْحَيَّةُ - سانپ کا ڈنٹا۔

سَلَمَ (ض) سَلَمًا - الْجِلْدُ - کھال کو سلم

درخت کے پتوں سے وباغت دینا۔

الدَّلْوُ - دُول - بنانے سے فارغ ہونا اور مضبوط و

عمدہ بنانا۔

سَلَمَةٌ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ - السَّلَامُ عَلَيْكَ کہا

ہے مِنَ الْآفَةِ - محفوظ رکھنا۔ ہ ابلی

فَلَانٍ - سپرد کر دینا۔ سَلَّمَ بِالْأَمْرِ - راضی ہونا

إِلَيْهِ - فرمانبردار ہونا۔ الشَّيْءُ - خاص

کرنا۔ سَلَمَةُ الشَّيْءِ فَسَلَمْتُهُ - کسی کو کوئی چیز

سپرد کرنا اور اس کا قبول کر لینا۔

سَالَمْتُ - مصلحت کرنا۔

أَسَلَمْتُ - فرمانبردار ہونا۔ دین اسلام اختیار کرنا۔

بِيعَ سَلَمٌ كَرْنَا - الْعَدُوُّ - دشمن کو چھوڑ دینا۔

أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ - سپرد کر دینا اور تم کہتے ہو

"أَسَلَفْتُهُ وَ سَلَفْتُهُ" - جبکہ تم کسی کو چھوڑ دو اس

وقت جبکہ کوئی شخص تکلیف پہنچانا چاہتا ہو۔

أَسَلِمْتُ - سانپ سے ڈسا جانا۔

تَسَلَّمَ - مُسْلِمٌ بِنَا - الشَّيْءِ - قبضہ کرنا

مِنَهُ - بچر ہونا۔

تَسَلَّمَ الْقَوْمُ - بِأَهْمِ مَصَالِحِ وَ مَوَافَقَتِ كَرْنَا -

تَسَلَّمَتِ الْحَيْلُ - بغیر لڑے بجزے ساتھ

ساتھ چلنا۔

إِسْتَلَمَ - الْحَجَرُ - چھونا (سَلَمَةٌ - معنی پتھر سے

ماخوذ ہے) بوسہ دینا اور بسا اوقات پتھر کے علاوہ

دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا

کہ تم کہتے ہو "إِسْتَلَمْتُ يَدَهُ" - میں نے اس

کے ہاتھ کو چھوا بوسہ دیا۔

الْقَرْعُ - خوش نکلنا۔

إِسْتَسَلَّمَ - فرماں بردار ہونا۔

تَسَلَّمَ - مُسْلِمٌ كَمَا تَأْتِي (یہ مسلم سے ماخوذ ہے

جیسے مسکین سے تَسَلَّمُونَ)

السَّلْمُ - مہ - ایک گوشہ والا ڈول۔ ج أَسَلَمْتُ

وَ سَلَامٌ سَلَمٌ فِيهِ - ایک لغت۔

السَّلْمُ - صلح کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "أَنَا سَلَمٌ

لِمَنْ سَالَنِي وَ حَزْبٌ لِمَنْ حَاوَنَنِي" - میں

صلح کرنے والوں کے لیے صلح جو اور لڑنے والوں

کیلئے لڑا کرتا ہوں۔ قَوْمٌ سَلَمٌ وَ سَلْمٌ - صلح کرانے

والی قوم۔ سلامتی۔ سلام۔

السَّلْمُ - سلامتی۔ تاجدارِ قید۔ قیدی۔ ایک

قسم کا کانٹا دار درخت جس کے پتوں سے

دباغت دی جاتی ہے اور اسی سے ذُو سَلَمٌ نام

رکھا گیا ہے۔ واحد (سَلَمَةٌ)

السلمی۔ جلی (وہ جلی جس میں پتہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اگر وہ پیٹ میں ٹوٹ جاتی ہے تو پتہ اور ماں دونوں مرجاتے ہیں) ج اسلاء۔ "انقطع السلمی فی البطن" اس وقت بولتے ہیں جبکہ سارے خلیے ختم ہو جائیں اور مصیبت بڑھ جائے۔ و "هُوَ أَكْبَلُ السَّلَاءِ" وہ خیس و کمینہ ہے۔

سَمَّةُ (ن) سَمًا۔ زہر دینا۔ الطعام: کھانے میں زہر ڈالنا۔ القازورۃ: بند کرنا۔ الشئی: درست کرنا۔ یَنْهَمًا: صلح کرنا۔

الأمر: آزمانا اور = تک پختہ۔ سَمَّ البعثةَ إِلَیْهِ: مخصوص کرنا۔ سَمَّ الشئی: سب کو عام ہونا۔

سَمَّتْ (ن) سَمُوْمًا الرَّیْحَ: جھلتا۔ سَمَّ التیوْمُ: بون کا سخت گرم ہونا یا گرم ہوا والا ہونا۔ التَّبَاتُ: باوسوم سے جھلتا۔ صفت (مَسْمُوْمٌ)

سَمَّ ک الطعامَ: کھانے میں زہر ڈالنا۔ اَسَمَّ اسحامًا التیوْمُ: باوسوم چلنا۔

السَّمُّ و السَّمَّ و السِّمِّ: سوتلی کا ناکہ۔ زہر ج سَمَامٌ و سُمُوْمٌ۔ سَمَّ الجَمَارِ: کبیر۔ سَمَّ الفَارِ: سکنیا۔ سَمَّ السَّمکِ مای زہر۔ (ایک دو اکانام) سَمَّ سَاعَةَ: فوراً ہلاک کرنے والا زہر۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَ سَمَّ حَاجِبِهِ" اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ السَّم: ہر وہ چیز جو سمندر سے نکلے مثل سمک مگوٹا وغیرہ کے۔

السَّمَّةُ: قزابت۔ کھجور کی چٹائی جس کو درخت خرمائے نیچے کھجوریں تاکہ کھجوریں اسی پر گر سکیں۔ زہنت کے لیے پردی ہوئی کوڑیاں۔ ج سَمَمٌ و سِمَامٌ۔

سَمِيَّةُ الشئی: کسی چیز کا زہریلا اثر۔ السَمَامُ: ہلکا جھکا تیر۔ ایک چھوٹا سا پرندہ۔ واحد (سَمَامَةٌ)

السَمَامُ و السُّمُوْمُ: مِنَ الْإِنْسَانِ: مُد۔ تھپتھپکان۔ السَمَامُ: بھیڑیا۔

السُّمُوْمُ: گرم ہوا۔ مَوْتٌ۔ ج سَمَامِیْنِ۔ السَّمَامَةُ: کلہب انسانی۔ تم کہتے ہو "فَلَائِي"

مَوْتٌ مُسَلِّمَةٌ۔ ج مُسَلِّمَاتٌ۔ أَرْضٌ (مُسَلُّوْمَاءٌ) بہت درخت سلم والی زمین۔

السَّلْمَخُ: تیر کا باریک پھل۔ ج سَلَامِیْجٌ۔ اِسْلَهَبَ: القَوْمُ: گھوڑے کا لہا ہونا۔

السَّلْهَبُ: لہا۔ ج سَلَاهِبٌ و سَلَاهِبَةٌ السَّلْهَبَةُ مِنَ النِّسَاءِ: بڑے ذیل ڈول کی عورت۔

السَّلْهَابَةُ: لہر عورت۔

السَّلْهَجُ: لہا۔

اِسْلَهَمَ اِسْلَهَمًا: رنگ بدل جانا۔ صفت (مُسْلَهَمٌ)

السَّلْهَمُ: لاغر لہا۔ بیماری کی وجہ سے ناتواں۔

سَلَا سَلُوْا سَلُوْا و سَلُوْا و سَلُوْا و سَلُوْا و سَلُوْا یَسْلُو سَلِيْنَا الشئی و عَنهُ: بھول جانا۔ تسلی پانا۔ بے غم ہونا۔

أَسْلَى اِسْلَاءَ القَوْمِ: درندوں سے مامون ہونا۔ اِسْلَاهَ عَن هَجِهِ: بے غم کر دینا۔

سَلَى تَسْلِيًا: تکلف تسلی ظاہر کرنا۔ تسلی پانا۔ کہا جاتا ہے "سَلَاةٌ و اِسْلَاةٌ فَتَسْلَى" اس نے اسے تسلی دی اور اسے تسلی حاصل ہو گئی ()

و اِسْلَى (الْهَمُّ: غم زائل ہونا۔ اِسْلَمْتُ اِسْتِیْلَاةً الشَّاةُ: موٹی ہونا۔

السُّلُوَّةُ و السُّلُوَّةُ: تسلی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي سُلُوَّةٍ مِنَ العِیْشِ" وہ فریادی و فارغ البال کی زندگی میں ہے۔ "أَسْقِیْتَنِی سُلُوَّةً مِنَ نَقِیْمِکَ" یعنی میں نے تجھ سے وہ چیز دیکھی جس سے مجھے تسلی ہو گئی۔

السُّلُوَانُ: مہ۔ () و السُّلُوَانَةُ و السُّلُوَانَةُ: ایک قسم کا مہرہ جس کو تعویذ کے طور پر یا نظرد سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

السُّلُوْنِ: شہد۔ باعث تسلی۔ لوا۔ احد (سَلُوَاةٌ) السُّلُوَاةُ: ہر وہ مقام جہاں پر تسلی زیادہ ہو۔ ہر وہ چیز جو باعث تسلی ہو۔

السُّلُوْنِ: فاکھوڑوڑ کا تیرا گھوڑا۔ سَلِيْتُ تَسْلَى سَلَى: الشَّاةُ: ٹوٹی ہوئی جیل والی ہونا۔ صفت (سَلِيَاءٌ)

اَسْلَمْتُ الشَّاةُ: بکری سے جلی نکالنا۔

السَّلْمُ: بیڑی (مذکر و مؤنث) ج سَلَامٌ و سَلَامِیْمٌ۔ وسیلہ۔ سبب۔ کہا جاتا ہے "اِتَّخَذَهُ سَلْمًا اِلَى حَاجِبِهِ" اس نے اس کو اپنی حاجت کے لیے وسیلہ بنایا۔

السَّلْمَةُ: پتھر ج سَلَامٌ۔ نازک ہاتھ بیروں والی عورت۔

السَّلَامُ: مہ۔ تسلیم کلام جیسے حکم سے کلام۔ طاعت و فرمانبرداری کے لیے جھکانا۔ السَّلَامُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ہے اس لیے کہ باری تعالیٰ ناقص و عیوب وغیرہ سے پاک ہیں۔ دار السَّلَامِ: جنت۔ مَدِیْنَةُ السَّلَامِ: بغداد۔ نَهْرُ السَّلَامِ: دریائے وطلہ ()

و السَّلَامُ: ایک قسم کا زرو درخت۔ واحد (سَلَامَةٌ و سِلَامَةٌ) السَّلَامَةُ: مہ۔ عیوب و آفات سے پاکی۔

السَّلَامِی: چھوٹی ہڈیوں میں سے ہر جو زردار بڑی جیسے انگلیوں کی ہڈیاں۔ پھر تو سغا ہر بڑی اور بڑی کے جوڑوں پر اطلاق ہونے لگا۔ ج سَلَامِیَاتٌ۔

السَّلَامِی: دکھنی ہوا۔

السَّلَامِیُّ: ایک قسم کا زہر جس کا جزو اعظم پارہ ہے۔

أَبُو سَلْمَانَ: گھریلا۔

أَبُو سَلْمَنِ: گرگت۔

السَّلَامِ: فا۔ آکھ اور ناک کے درمیان کی کھال۔

السَّلَامِیْمُ: ج۔ سَلْمِی: ڈسا ہوا۔ سخت زخمی جو قریب ہلاکت ہو (ان دونوں کو تَفَاوُلًا سَلْمِیْمٌ کہتے ہیں)۔ ج سَلْمَاءُ: آفات سے محفوظ۔

الْاِسْلَمُ: آفات سے بہت محفوظ۔ مَوْتٌ سَلْمِی: ج۔ سَلْمِی: ڈسا ہوا۔ سخت زخمی جو قریب ہلاکت ہو (ان دونوں کو تَفَاوُلًا سَلْمِیْمٌ کہتے ہیں)۔ ج سَلْمَاءُ: آفات سے محفوظ۔

السَّلْمِی: چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کے درمیان کی ایک رگ۔

الإِسْلَامُ: مہ۔ بغیر کسی پس و پیش کے امر و نہی کی فرمانبرداری کر لینا۔ مذاہب اسلام اور کبھی مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

السَّلْمِیْمُ: دین اسلام کا بیرو۔ ج مُسَلِّمُوْنٌ

”أَسْمَحَتْ فَرُوْنَةُ“ یعنی اس کا نفس تابع و فرما ہوا ہو گیا۔

سَمَاحَةٌ فِي الْأَفْرِوِ وَالْأَفْرِوِ: نرم برتاؤ کرنا۔ نرمی کرنا۔ مقصد میں موافقت کرنا۔ ہ بذنبہ: درگزر کرنا۔

تَسْمَحُ وَتَسْمَاحٌ: فنی گنڈا: نرمی برتا۔

السَّمَاخُ: سم۔ بَيْغُ السَّمَاخِ: دو بیج جس میں قیمت گنٹائے میں نرمی ہو۔ کہتے ہیں ”السَّمَاخُ رِيَاخٌ“ یعنی معاملات میں نرمی قطع بخش ہوتی ہے۔

السَّمَاخُ: سم۔ بیڑے کا خیمہ۔

السَّمَاخَةُ: السَّمْحُ: کاموٹ۔ جِ سَمَاحُ:

السَّمْحُ: وسعت و فراخی۔

السَّمْحُ: رازیت گھوڑا یا گدھی۔ تہلی کر اور سخت گوشت والا گھوڑا۔

السَّمْحَاقُ: سرکی ہڈی پر باریک جھلی۔

السَّمْحَاقِيُّ: السَّمَاءُ: بالوں کے پتلے گلے۔

اور کہا جاتا ہے عَلِيُّ قُرْبِ الشَّافَةِ سَمَاحِيٌّ مِّنَ الشَّمْحِ: بکری کے اونچے کی چادر پر چہلی کی کچھ جھلی سی ہے۔

سَمْحٌ (ن) سَمْحَةٌ: الزُّوْعُ: کھیتی کا اٹنا۔

سَمْحَةٌ (ف) سَمْحَا: کان کے سوراخ پر چوٹ لگا کر زخمی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”سَمْحَنِي بِحِدَّةٍ صَوِيْبَةٍ وَكَثْرَةٍ كَلَامِي“ اس نے آواز کی تیزی اور کثرت گفتگو سے میرے کان کو زخمی کر دیا۔

زُرْعٌ حَمْنٌ (السَّمْحَةُ): اچھی اگنے والی کھیتی۔

السَّمَاخُ: کان کا سوراخ۔

سَمْدٌ (ن) سَمْدٌ: حیران کرا ہونا۔ تھیر ہونا۔

گانا۔ تکبیر سے سر اٹھانا اور سینہ تانا۔ فی الْعَمَلِ: کوشش کرنا اور تکلیف اٹھانا۔ الْإِبِلُ: اونٹ کا تیز چلنا۔ سَمْدًا: الرَّجُلُ: قصد کرنا۔

سَمْدٌ: الْأَرَضُ: کھاڑا انا۔ الشَّعْرُ: بال کو جڑ سے موڑنا۔ الرَّجُلُ: کھیل کود میں ڈالنا۔ غافل کرونا۔

إِسْمَدًا إِسْمَدًا وَإِسْمَادًا إِسْمَادًا

سَمْتٌ: راست اختیار کرنا۔ لِلْعَاطِسِ:

یوحکم اللہ کہہ کے دعا کرنا۔ عَلِيُّ الشَّيْءِ: کسی چیز پر اللہ کا نام لینا۔

سَمَاتَةٌ: مقابل ہونا۔

تَسَمَّتُهُ: قصد کرنا۔

السَّمْتُ: سم۔ راستہ۔ کہا جاتا ہے ”خُذْ فِي بَدَا السَّمْتِ“ اس راستہ کو اختیار کرو۔ جِ سَمُوْتٌ

سَمْتٌ الرَّاسِ فِي عِلْمِ الْهَيْئَةِ: علم ہیئت کی اصطلاح میں کسی کھڑے ہوئے شخص کے سر کی

سیدھ میں آسمان کا وہ نقطہ جس پر کواہ ارض کے مرکز سے نکلا ہوا خط پینچے۔ سمت الراس کہا جاتا

ہے اور اس کے مقابل کو سَمْتُ الْقَدَمِ یَا سَمْتُ الرَّجْلِ کہتے ہیں۔ اور سمت کالفظ الہی خیر و صلاح کی

ہیئت کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ”مَا أَحْسَنَ سَمْتُ فَلَانٍ“ اس کی ہیئت و حالت کس

قدر اچھی ہے۔

سَمْحٌ (ک) سَمَاحَةٌ وَ سَمُوْحَةٌ: قبیح ہونا۔

صَفْتٌ (سَمْحٌ وَ سَمِيْحٌ وَ سَمِيْحٌ) جِ سَمَاحٌ وَ سَمِيْحُوْنٌ وَ سَمْحَاءٌ وَ سَمَاجِيٌّ:

سَمْحَةٌ: قبیح بنانا۔

إِسْتَسْمَحَهُ: قبیح سمجھنا۔

سَمَجَزٌ سَمَجَزَةٌ: اللَّبْنُ: دودھ میں پانی زیادہ

ملنا۔

سَمْحٌ (ک) سَمَاحًا وَ سَمُوْحًا وَ سَمَاحَةٌ وَ سَمُوْحَةٌ وَ سَمْحَا: فِیاضٌ وَ خِی ہونا۔

صَفْتٌ (سَمْحٌ وَ سَمِيْحٌ وَ سَمِيْحٌ وَ سَمَاحٌ) جِ سَمَاحٌ وَ سَمَاحٌ وَ سَمْحَاءٌ وَ سَمَاجِيٌّ: تم کہتے ہو

”رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ سَمَاحٌ وَ سَمْحَاءٌ وَ سَمَاجِيٌّ“

سَمْحٌ (ف) سَمَاحَةٌ وَ سَمَاحًا: بِكَذَا:

بخشش کرنا۔ لَهْ بِالشَّيْءِ: دینا۔ الْفُوْدُ:

کڑی کا نرم ہونا۔ التَّاقَةُ: اونٹنی کا مطیع و تیز رفتار ہونا۔

سَمْحٌ: نرم ہونا اور نرم برتاؤ کرنا۔

الزُّرْعُ: نیزہ کو نرم کرنا۔ الرَّجُلُ: آہستہ چلنا۔ دوڑنا۔ بھاگنا۔

أَسْمَحَ الرَّجُلُ: فِیاضٌ وَ خِی ہونا۔ أَسْمَحَتْ الدَّابَّةُ: سرکشی کے بعد نرم ہونا اور کہا جاتا ہے

بِهِئِ السَّمَامَةَ“ فلاں خوبصورت بدن والا ہے۔

كَمْزَرَاتٍ: جمنڈا۔ گھوڑے کی گردن کا خوبصورت دائرہ۔ ابائل کی مانند ایک پرندہ جس کے انڈوں کا حاصل ہونا غیر ممکن ہے۔ اسی وجہ سے عرب کا قول ہے ”كَلَفْتَنِي بَيْضُ السَّمَانِيْمِ“ تم نے مجھ کو تکلیف مالا بطق دی۔

اور ایک قول بَيْضُ السَّمَانِيْمِ کا ہے۔

سَمَانِيْمٌ سَمِيْحَةٌ کی جمع ہے جس کے معنی سرخ چوٹی کے ہیں۔

السَّمَاءُ: زہریلا۔

السَّمَاةُ: سام کا موٹ۔ خاص۔ کہا جاتا ہے

”عَرَفَ ذَلِكَ السَّمَاةَ وَ الْعَامَةَ“ اس کو خاص اور عام سب جانتے ہیں۔

سَمَامٌ أَبْرُصٌ وَ سَمٌّ أَبْرُصٌ: جھکی۔ ٹھی۔ سَمَافًا

أَبْرُصٌ: جِ أَبَارِصٌ وَ سَوَامٌ أَبْرُصٌ:

يَوْمٌ سَمَامٌ وَ مَسِيْمٌ وَ مَسْمُوْمٌ: گرم ہوا

والادار۔

الْأَسْمُ: الْأَنْفُ: تنگ نسنے والا۔

السَّمَامُ: مِنَ الْجِلْدِ: جسم کے باریک

سوراخ اور بعض لوگ۔ اس کو سَمٌّ یعنی سوراخ کی جمع قرار دیتے ہیں جیسے صَحَابِيْنُ حَسَنِيْنُ کی

جمع۔

أَهْلُ (السَّمْحَةِ) خاص لوگ۔ رشتہ دار۔

سَمْعَانُ: الْخَلُّ: کھسی والا ہونا۔

إِسْمَاعُ: إِسْمَاعِيْلًا: درہلا ہونا۔

الظِّلُّ: کو تاہ ہونا۔

السَّمْوَالُ: سائیہ۔ سرکہ کے اوپر کی کھسی۔

ایک شخص کا نام جو فاء عمد کے لیے ضرب المثل ہے۔

السَّمْسِيْلُ: فَا پُرَا نَا كِيْرًا:

سَمْتٌ (ن) سَمْتٌ: راست اختیار کرنا۔ راہ

راست پر چلنا۔ گمان سے راستہ پر چلنا۔ سَمْتُ الشَّيْءِ وَ سَمْتٌ نَحْوُهُ: قصد کرنا اور اسی سے

ہے ”وَهَنَّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ سَمَامَتْ“ وہ

سب خانہ کعبہ کی جانب قصد کرنے والی ہیں۔

سَمْتٌ لَهُمْ: رائے و تدبیر و طریقہ گفتگو کی

رہنمائی کرنا۔

کی رات۔	تَسَامَرُ الْقَوْمُ: رات کو باہم باتیں کرنا۔	الزَّجْلُ: غصت سے چھوٹنا۔ بَدَّةٌ: ہاتھ کا
السَّمْتِيُّ: رات میں باتیں سنانے والا۔	السَّمْرُ: مہ۔ قَوْمٌ سَمْرٌ: رات کو باتیں کرنے	سوچنا۔ الشَّيْءُ ضَالِحٌ ہوتا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
المِسْمَارُ: کیل۔ بَخَّ: اونٹوں کا بہتر رکھوالا۔	والے لوگ۔	لَكَ (سَمْدًا)" وہ تمہارے واسطے پیشہ کے لیے
بِحَمْسَامِيرٍ۔	السَّمْرُ: رات کو باتیں سنانے والا۔ جِ اسْمَاعِزُ:	ہے۔
السَّمْسُورُ: کم گوشت، مضبوط پتھوں والا۔	رات کی تاریکی۔ کہا جاتا ہے "لَا آتِيكَ	السَّمَادُ: کھاو۔
مكدر زنگانی۔	سَمْرًا" میں اس کے پاس رات کو نہیں آؤں گا۔	السَّمَادُ: فَا- وَظَلَبَ سَمَادٌ: بھری ہونے سے
السَّمْرَاءُ اسْمَرٌ كَامُونُثٌ۔ گیوں۔ گیوں کا	رات کی گفتگو۔ چاند کا سایہ اور کبھی سر قرعے	کھڑی ہوئی۔
آٹا جس سے بھوسی جہدائی گئی ہو۔	مقابلے میں بولتے ہیں جہاں سایہ ہو اس کو سَمْرٌ	اسْمَدٌ اسْمَدٌ اِذَا: نگاہ کمزور ہونا۔
السَّمْرِيَّةُ: ایک قسم کی کشتی۔	اور جہاں چاندنی ہو اس کو قمر کہتے ہیں۔ زباند۔	السَّمْدُورُ: آٹھ کار پرہ۔ بادشاہ (اس وجہ سے
سَمْرَتٌ: السَّمْرُوتُ: لمبا (السَّمْرُودُ) لمبا۔	رات کو باتیں کرنے والوں کی مجلس۔ اور	کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی
السَّمْرُومُ: ایک قسم کا پرندہ جو ٹڈیوں کا بہت	"حَلَقْتُ بِالسَّمْرِ وَالْقَمَرِ" و "لَا آتِيكَ	ہیں۔)
شکار کرتا ہے اور ٹڈیاں اس کی آواز سے بھاگتی	السَّمْرُ وَالْقَمَرُ" و "لَا أَكْفُلُهُ السَّمْرُ وَالْقَمَرُ"	السَّمَادِيَّةُ: نشا یا بیوشی یا دوران سر کی وجہ
ہیں۔ السَّمْرُومَةُ: بھوت۔	ان سب ترکیبوں میں "مُدَّةٌ وَجُودُ السَّمْرِ	سے نگاہ کی کمزوری۔
سَمْسُورٌ سَمْسُورَةٌ: دلال ہوتا۔	وَالْقَمَرُ" معزوف ہے۔ مراد بیگلی ہے۔	السَّمْتَدُورُ وَالسَّمْتَدُورُ: ایک جانور جو پانی اور
المِسْمَارُ: دلال۔ چیز کا مالک و منتظم۔	السَّمْرَةُ: رات کی گفتگو۔	شکل میں رہتا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے جسم پر
بِسَمْسَارِ الْأَرْضِ: زمین کا ماہر۔ جِ سَمْسَارِيَّةٌ وَ	السَّمْرُ: بھول کا درخت۔ جِ اسْمَرُ: واحد	کچھ ایسا مادہ ہوتا ہے جو آگ بجھا دیتا ہے اور اسی
سَمْسَارِيَّةٌ	(سَمْرَةٌ)	بتا پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جلتا نہیں۔
السَّمْسُورَةُ: مہ۔ دلالی کا پیشہ۔ دلالی کی اجرت۔	السَّمَامِيرُ: فَا- جِ سَمْرٌ وَسَمْرٌ: رات کو باتیں	السَّمْتَدُوعُ: فِاضِ سَمْرَارٍ۔ شریف بہادر
السَّمْسِقُ وَالسَّمْسِقُ وَالسَّمْسِقُ	کرنے والوں کی مجلس۔ تم کہتے ہو "أَفْسَيْتُ	بِجِيْرِيَا۔ گوار۔ جِ سَمْدَاعُ۔
وَالسَّمْسِقُ: جنسی۔ مرزنجوش۔	الْبَارِحَةَ فِي سَمَامِيرِ الْحَيِّ" میں گزشتہ رات قبیلہ	السَّمِيْدُو السَّمِيْدُ: سفید آٹا۔
السَّمْسَمُ: الثَّقَلَبُ: لومڑی کا دوڑنا۔	کی مجلس گفتگو میں تھا۔ وَالسَّمَاةُ: اسم جمع	سَمْرٌ (ان) سَمْرًا: العَيْنُ: گرم سلائی سے
الزَّجْلُ: نرم چال چلانا۔	بمعنی رات کو باتیں کرنے والے۔	آٹھ چوڑا (سَمْرًا وَسَمْرُوتًا) رات میں
السَّمْسَمُ: لومڑی۔ بھیڑیا۔ زہر۔	السَّمَامُورُ: ہیرا۔	یقینہ گوئی کرتا۔ کہا جاتا ہے "لَا أَفْعَلُهُ مَا سَمْرٌ
السَّمْسَمُ: سرخ جیوتی۔ جھوٹی جیوتی۔ واحد	السَّمَارُ: مستحلیٰ طاہر اور دودھ۔	السَّمِيْرُ او اِنْبِئِ سَمِيْرٌ وَاِنْبِئِ سَمِيْرٍ" میں اس کو
السَّمْسَمَةُ: ہلکا ہلکا مرد۔ جِ سَمْسَامُ۔	الْأَسْمَرُ: نیزہ۔ ہرن کا دودھ۔ کہا جاتا ہے "عَامٌ	جب تک لوگ یقینہ بیان کرتے رہیں گے نہیں
رَجُلٌ (مَسْمَمِمْ) (الْوَجْهَ: خاندان پر چرب والا	أَسْمَرٌ" بھیڑیا ریش کا خشک سال۔	کروں گا یعنی کبھی نہیں کروں گا۔
مرد۔	الْأَسْمَرَانِ: پانی اور گیوں پانی اور نیزہ۔	سَمْرٌ (ان) سَمْرًا وَسَمْرًا: اللِّينُ: دودھ
سَمَطٌ (ان) سَمَطًا: الزَّجْلُ: چپ رہنا۔	السَّمْرُورُ: تیز رفتار۔ اصل ماؤنٹی۔	کو پانی ملا کر پتلا کرنا۔ العَمْرُ: شراب پینا
عَلَى الِيجْمِيْنِ: قسم کھانا۔ اللِّينُ: مٹھاس	السَّمْرُورُ: ایک جانور جو نولے کے شاخ اور	التَّبَاتُ: مٹھاس چرنا۔ النَّبَاتُ: وغیرہ۔
میں تعمیر ہوتا۔ صفت (سماوٹ)	اس سے کچھ بڑھا ہوتا ہے اور رتک سرخ سیبی	دروازے کو بچ سے۔ سَبُوطٌ کرنا۔ السَّمْمُ:
سَمَطٌ: (ان) سَمَطًا: الجَدَمِ: بکری	ماکل ہوتا ہے اور اس کی کھال سے بہت بیش	تیر چلانا۔
کے بچہ کو بالوں سے صاف کر کے بھوننا۔	قیمت پوٹتین تیار ہوتی ہے اور اب اوقات اس	سَمِيْرٌ (س) وَسَمْرٌ (ک) سَمْرَةٌ اسْمَرٌ
	جانور کی کھال کو بھی سَمْرُورُ کہتے ہیں۔ جِ	اسْمَرًا او اسْمَارًا اسْمَرًا اِذَا: سفیدی۔ سیاہی
	سَمَامِيْرُ۔	کے درمیان رنگ والا ہوتا۔ گندم گوں ہونا۔
	السَّمِيْرُ: رات کو باتیں سنانے والا۔ رات کا یقینہ	صفت (اسْمَرٌ) مَوْنُثٌ سَمْرَاءُ: جِ سَمْرٌ۔
	گو۔ زباند۔ اِنْبِئِ سَمِيْرٍ: دن اور رات۔ کہا جاتا ہے	سَمَاةٌ: رات کو باتیں کرتا۔ رات کو یقینہ گوئی
	"لَا أَفْعَلُهُ سَمِيْرٌ اللَّيَالِي" میں اس کو کبھی نہیں	کرتا۔
	کروں گا۔ اور کہا جاتا ہے "اِنْبِئِ سَمِيْرٍ" ہے چاند	تَسْمَرٌ: بچ لگنے سے مضبوط ہونا۔

”سَمَطٌ لَصِيذَةٌ فَلَانٌ“ کسی کے قصیدہ کے اشعار کے ہر ہر شعر کے مصرعوں میں اپنی جانب سے ایک مصرعہ بڑھانا۔
اَسْمَطُ چپ ہونا۔
تَسْمَطُ الشَّيْءُ بِهِ يَلْكُهُ۔

السَّمَطُ - لڑی جس میں مرہ یا موتی پروئے ہوئے ہوں۔ زین کا تسمہ جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے۔ کہا جاتا ہے ”عَلَقَةٌ بِسَمَطٍ سَرْجِيَّةٌ“ اس نے اس چیز کو زین کے تسموں سے لٹکایا۔
مِنَ الْعِمَامَةِ: بگڑی کا شملہ۔ گلوبند (زیور) سے لہار۔ السَّمَطُ مِنَ التِّيَابِ: چادر کے نیچے نمایاں ہونے والا کپڑا۔ مِنَ الزَّمَلِ: ریت کی لکیر۔ زَجَلٌ: سَمَطٌ: ہلکا ہلکا چالاک مرد۔ ج سَمُوطٌ۔

السَّمَطُ - مہ۔ فقیر۔
السَّمَطُ: اونٹنی۔
نَعْلٌ (سَمَطٌ وَأَسْمَاطٌ) اکرے چڑے کا جوتا۔
نَاقَةٌ سَمَطٌ وَأَسْمَاطٌ: بے داغ کی اونٹنی۔
سَرَاوِيلٌ أَسْمَاطٌ: اکریا جامد۔

السَّمَاوِيطُ - فَا - مَاءٌ سَامِطٌ: جوش دیا ہوا پانی جو کسی چیز سے بال وغیرہ صاف کر دے۔

السَّمَاوِيطُ - صَف بَسْتِ حِزْبٍ - دَسْتَرُوَانٌ - سَمَاطٌ الطَّرِيقِ: راستہ کے دونوں جانب۔ سَمَاطٌ الْقَرْوِمِ: قوم کی قطار۔ ج سَمُوطٌ اور کہا جاتا ہے ”هَمَّ عَلَيَّ سَمَاطٌ وَاحِدٌ“ وہ ایک نظام میں ہیں۔

السَّمِيْطُ - بَال صَافِ كَرَكَةٍ بَهْوَانًا هُوَ الْبَكْرِيُّ كَالْبَيْتِ - مَرَسِبْ حَالٍ - فَقِيرٌ - بَيْتَةُ الْبَيْتِوْنَ كَارُوهُ - نَعْلٌ سَمِيْطٌ: ایک چڑے کا جوتا۔
السَّمِيْطُ - بَيْتَةُ الْبَيْتِوْنَ كَارُوهُ۔

السَّمِطُ - مِنَ الشُّعْرِ: وہ شعر جو ۱۷۱۶ء عروض پر ہو اور قافیہ کے حروف روی کے علاوہ دوسرے قافیہ پر ہو اور کہا جاتا ہے ”حُكْمُكَ مُسَمَّطًا“ تمہارا حکم پورا کیا ہوا ہے۔ تم پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی تقدیر یہ ہے ”لَكَ حُكْمُكَ مُسَمَّطًا“ اور مُسَمَّطًا حالت کی وجہ سے منسوب ہے۔ ”هُوَ لَكَ مُسَمَّطًا“ وہ تمہاری لیے خوشگوار ہے۔ و ”خُذْ حُكْمَكَ“

مُسَمَّطًا“ تم اپنے حکم کو جاری کرو جو رد نہیں ہوگا۔

السَّمِيْطُ - اِيك قِسْمٍ قَابِرٌ هُوَ جَسْمٌ كِي كَرْدَانِ لَمِي هُوَتِي هِي اُوْر بِمِشْ اَتَمَلِي پَانِي كِي قَرِيْب دَكْهَانِي دِيْنَا هِي۔

سَمِعَ (س) سَمِعًا و سَمِعًا و سَمَاعًا و سَمَاعَةً و سَمَاعِيَةً و مَسْمَعًا - الصَّوْتُ: سنا۔ صفت (سَامِعٌ) ج سَمَاعٌ و سَمْعَةٌ و سَامِعُونَ لَهَ اللّٰهُ: قبول کرنا۔ مِنْهُ وَ لَهُ: دینا۔

اَلِيْهِ: کان لگانا۔ تَوَجَّدَ هُوَا۔
سَمِعَهُ الصَّوْتُ: سنا۔ سَمِعَ بِهِ: عیوب کو پھیلانا۔ رَسُوَا كَرْنَا: بری باتیں سنانا اور گالی دینا۔ سَمِعَ بِكَذَا: کسی کے متعلق کوئی چیز پھیلانا۔
بِفُلَانٍ فِي النَّاسِ: شہرت دینا۔

اَسْمَعُهُ: سنانا۔ گَالِي دِيْنَا - ذُوْلٌ مِيْنِ دِسْتِ لِكَا۔
تَسَمَّعَ و اِسْمَعَّ: الرَّجُلُ و اَلِيْهِ: کان لگانا۔
تَسَامَعَ: بِه النَّاسُ: کسی کے متعلق لوگوں کا ایک دوسرے سے سنا۔
اِسْتَمَعَ - لَهَ و اَلِيْهِ: کان لگانا۔
اِسْتَمَعَهُ: سنا۔

السَّمْعُ - مَه - سَنِي كَا حَاوِس - كَا ن - سَنِي هُوَتِي بَات -

سنا ہوا ذکر۔ ج اَسْمَاعٌ و اَسْمَعٌ و ج اَسْمَاعِ و اَسْمَاعِيَعٌ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ فَاتِيْنٌ سَمْعٌ الْاَرْضِ و بَصْرُهَا“ جبکہ کوئی نہ جانتا ہو کہ کہاں گیا یا ایسی زمین میں ہو جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ”اَلْقَى نَفْسَهُ بِيْنِ سَمْعِ الْاَرْضِ و بَصْرُهَا“ اس نے اپنے آپ کو ایسی جگہ میں ڈال دیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔

نَمِيْنٌ - و ”سَمِعَكَ اِلٰهِي“ میری بات سنو۔ میری طرف توجہ کرو۔ و ”سَمِعَ اَذُنِيْنِ فُلَانًا يَقُوْلُ ذٰلِكَ“ فلاں کو یہ کہتے ہوئے میرے کانوں نے سنا اور کہتے ہیں ”سَمِعَ اَذُنِيْنِ و سَمِعَةٌ اَذُنِيْنِ و سَمِعَةٌ اَذُنِيْنِ“

اُمُّ السَّمْعِ: دماغ۔
السَّمْعُ: اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ سَمِيْعٌ“ اچھی شہرت کا مرد۔ و ”هٰذَا اَمْرٌ ذُوْ سَمْعٍ“ یہ سننے کے لائق ہے اور جب کوئی آدمی کسی غیر پسندیدہ خبر کو سنتا ہے تو کہتا ہے ”سَمِعَا“

لَا يَلْعَا اَوْ سَمِعًا لَا يَلْعَا“ یعنی خدا کرے کہ سنی جائے اور پینے نہیں۔ السَّمْعُ: بھیرے کا پتہ جو سے۔ مَوْنُثٌ (سَمِعَةٌ) اس کی قوت سامعہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مثال ہے ”هُوَ اَسْمَعُ مِنْ سَمْعٍ“

السَّمْعَةُ سَمِعَ كَالسَّمْعِ مَرَّةً - اَذُنٌ سَمِعَةٌ: سننے والا کان۔ کہا جاتا ہے ”فَعَلَهُ رِيَاءً و سَمْعَةً“ اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لیے کیا۔

السَّمْعَةُ: شہرت۔ سَنِي هُوَتِي بَات - كَمَا جَا تَابِ هِي ”فَعَلَهُ رِيَاءً و سَمْعَةً“ اس نے یہ کام دکھانے اور سننے کے لیے کیا۔

السَّمَاعُ - مَه - شَهْرَتٌ - كَيْتٌ اُوْر اِصْطِلَاحٌ مِيْنِ سَمَاعٍ خِلَافِ قِيَاسٍ كُو كِتِي هِي عِيْنِي جَسْمٌ كُو عَرَبٌ سِي كَرَا سْتَعَالٌ كِيَا جَا تَابِ اُوْر اِسْ پَر قِيَاسٌ نَه كِيَا جَا كِي اُوْر كَمَا جَا تَابِ ”هٰذَا اَمْرٌ ذُوْ سَمَاعٍ“ یہ امر سننے کے قابل ہے۔ و ”قَالُوْا اَذٰلِكَ سَمَاعٌ اَذُنِيْنِ“ لوگوں نے اس کو میرے سامنے کیا۔

السَّمَاعُ: بَرُوْزَن قِطَاعٌ اِسْمُ فَعْلٍ بِمَعْنَى اِسْمَعُ۔
السَّمَاعُ: بہت سننے والا۔ فَرَا تَمِيْر اُوْر - جَا سُوْس - السَّمِيْعُ: سننے والا۔ سنانے والا۔

اللّٰهُ تَعَالٰی كِي اِسْمَاعٌ حَسْبِيْ مِيْنِ سِي هِي سَنِي هُوَتِي بَات - ج سَمَعًا - اُمُّ السَّمِيْعِ: دماغ۔ اَذُنٌ سَمِيْعَةٌ و سَمِيْعَةٌ: سننے والا کان۔
السَّمَاعَةُ: کان۔

السَّمَاعِيَعَانُ: دونوں کان۔
اَذُنٌ (سَمْعَةٌ و سَمِعَةٌ و سَمُوعٌ و سَمِيْعٌ و سَمَاعَةٌ) سننے والا کان۔ السَّمَاعَةُ: ایک آلہ کا نام جو سننے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔

التَّسْمِيْعَةُ: کہا جاتا ہے ”فَعَلْتُهُ تَسْمِيْعَتَكَ“ اُو تَسْمِيْعَتَكَ“ میں نے اس کو کیا ہے تاکہ تم سن سکو۔

السَّمْعُ: سننے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ مِيْنِيْ بِقِرَاٰی و مَسْمَعٌ“ یا ”هُوَ مِيْنِيْ مَرَاٰی و مَسْمَعٌ“ وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اس کو کچھ سکتا ہوں اور اس کی باتوں کو سن سکتا ہوں۔

المَسْمَعُ و المَسْمَعَةُ: کان۔ ج مَسَامِعُ - ذُوْلٌ كَاوَسْتِ جَسْمٍ مِيْنِ رَسِيْ بَايْدِ مِيْ جَاتِيْ هِي۔
السَّمِيْعُ: قاید۔

السَّمْلَةُ: جھوٹی پھالی۔
 السَّمُولُ: وسیع زمین۔ نرم مٹی والی زمین۔
 سَمْلَجُ: اللَّبَنُ فِي حَالِهِ: آسانی سے لگانا۔
 السَّمْلَجُ وَالسَّمْلَجُ: بیٹھا دوہ۔
 السَّمْلَاخُ وَالسَّمْلُوخُ: کان کا سوراخ۔
 کان کا میل۔
 السَّمَالِخِيُّ: بے مزہ دودھ یا کھانا۔
 السَّمْلَعُ: بھیرا۔ بد اور خبیث کے لیے بھی
 بولتے ہیں۔
 السَّمْلِقُ: ہموار و بجز زمین۔
 سَمِينٌ (س) سَمْنًا وَسَمَانَةً: موٹا ہونا۔ صفت
 (سَامِنٌ سَمِينٌ) ج سَمَانٌ۔
 سَمَنٌ (ن) سَمْنًا وَسَمَنٌ: الطَّعَامُ: کچی
 ڈالنا۔ وَسَمْنَهُ: موٹا کرنا۔ سَمَنَ الْقَوْمَ: کچی کا
 توشہ دینا۔ سَمَنَ لَهُ: بہت دینا۔
 أَسَمَنَ: موٹا ہونا۔ بہت کچی والا ہونا۔ موٹے
 جانوروں والا ہونا۔ موٹا جانور خریدنا یا اس کا مالک
 ہونا یا اسے بہت کرنا۔
 _____ الْقَوْمَ: گھوڑے کو موٹا کرنا
 السَّمْنُ: روٹی کچی میں تر کرنا۔ الرَّجُلُ: کچی
 کھلانا۔
 قَسَمَنَ: موٹا ہونا۔ بغیر شرافت کے مدعی
 شرافت ہونا۔
 اسْتَسَمَنَ: اپنے لیے کچی طلب کرنا۔ ہ:
 موٹا پانا یا بگھٹا اور اسی سے مثال ہے
 "اسْتَسَمَنَتْ ذَاوَرَمٌ" تم نے سوچے ہوئے کو
 موٹا سمجھ لیا۔ اس موقع پر بولتے ہیں جبکہ کوئی
 شخص حقیقت و واقعہ کے خلاف محض ظاہر سے
 دھوکا کھا جائے۔
 السَّامِنُ: قا۔ بہت کچی والا (فاعل ذیکذا ہے
 باب تَامِرٌ وَلَا يَنْ سَمِنُ)
 السَّمْنُ: مہ۔ کچی۔ ج اسْمَنُ وَسْمُونٌ
 سَمْنَانٌ۔
 السَّمَانُ: کچی بیچنے والا۔
 السَّمْنَةُ: کچی۔ یہ السمن سے خاص ہے۔
 السَّمْنَةُ: موٹا کرنے والی ایک دروا۔
 ایک قسم کی گھاس جس کے دانے قفل کی طرح
 ہوتے ہیں اور اس کو عورتیں فریبی کے لیے

سَمَكٌ: مِنَ الزُّوْر: بھلی سے ملی ہوئی بھلی۔
 السَّمَاكَانُ: دو روشن ستارے ایک کو
 السَّمَاكُ الرَّامِحُ اور دوسرے کو السَّمَاكُ
 الْأَعْوَلُ کہتے ہیں۔
 السَّمِيكَاءُ: ایک قسم کی جھوٹی مچھلی جو خشک کی
 جاتی ہے۔
 السَّمَاكُ: مچھلی۔ مچھلی بیچنے والا۔
 السَّمِيكُ وَالسَّمُوْكُ: لہا۔ السَّمُوْكُ
 مِنَ النَّخْلِ: مضبوط گھوڑا۔
 السَّمَاكُ: خمیر وغیرہ اٹھانے کی کڑی۔
 السَّمَاكَاتُ وَالسَّمُوْكَاثُ السَّمِيحُ:
 ساتوں آجان۔
 سَمَلٌ (ن) سَمَلًا: عَيْتَهُ: آنکھ پھوڑنا۔
 الْحَوْضُ: کچھز وغیرہ سے صاف کرنا
 يَبْتَهِمُ: صلح کرنا۔ الذَّلُو: ڈول کا تھوڑا پانی
 نکالنا۔
 سَمَلٌ (ن) سَمُولًا وَسَمُولَةً وَسَمَلٌ (ك)
 سَمَالَةً: الْقُوْبُ: کپڑے کا پرانا دوسیدہ ہونا۔
 صفت (سَمِلٌ)
 سَمَلٌ: الْحَوْضُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔
 _____ الْحَوْضُ: کچھز وغیرہ سے صاف کرنا
 فَلَانًا بِالْقَوْلِ: بڑی سے بات کرنا۔
 سَمَلٌ: الْقُوْبُ: کپڑے کا پرانا دوسیدہ ہونا
 _____ سَمَلًا: صاف کرنا۔
 تَمَسَلُ تَمُوْرًا يَابِيًّا يَبِيًّا: التَّبِيْفُ: تیزی کے
 بیٹے میں اب ار کرنا۔
 سَمَلٌ: عَيْتُهُ: آنکھ پھوڑنا۔
 السَّمَانُ: گھاس۔ پھوڑنے والا۔
 السَّمَلُ: برا۔ بوسیدہ۔ ج اسْمَالٌ: حوض کا
 بقیہ پانی
 قُوْبٌ (سَمَلٌ): سَمْنٌ وَسَمِيْلٌ: پرانا دوسیدہ
 کپڑا۔
 السَّمَالُ: باز۔ غر کا۔
 السَّمَلَةُ وَالسَمَلَةُ: تھوڑا پانی۔ ن سَمَلٌ وَ
 اسْمَالٌ وَيَسْمَالٌ وَسَمُولٌ۔
 السَّمْلَانُ: مِنَ السَّاءِ وَالسَّبِيْدِ: پانی یا شراب کا
 بقیہ۔
 السَّمُوْمَلُ: پرانا بوسیدہ۔ پڑ

السَّمِيْعَةُ: گانے والی۔ کہا جاتا ہے "عَشْتَهُمْ
 سَمِيْعَةً"
 السَّمِيْعُ: مہ۔ قید کیا ہوا (السَّمِيْعُ شَيْطَانُ
 خَيْبِثُ۔
 سَمْعَنٌ: السَّمْعَنَةُ وَالسَمْعَنَةُ: بہت سننے
 والی۔
 السَّمْعَجُ: بیٹھا دوہ۔
 اسْمَعَدٌ اسْمَعَادًا: غم سے بھر جانا۔
 اسْمَعَدْتُ أَنَا مِلَّةً: سوچنا۔
 اسْمَعَطُ: الفَجَاخُ: غبار کا اوپر چڑھنا۔
 اسْمَعَطُ: بخت ٹھیکتا ہونا۔
 اسْمَعَدٌ اسْمَعَدًا: الْجَرِيحُ: زخم کا سوچنا۔
 السَّمْعِيْدُ: نا۔ بھولا ہوا۔ زور سے پکڑنے
 والا۔ یہاں تک کہ انگلیاں سوچ جائیں۔
 سَمَقٌ (ن) سَمَقًا وَسَمَقًا: التَّبَاثُ: بلند
 ہونا۔ صفت (سَامِقٌ وَسَمِقٌ)
 السَّمَاقُ: خالص۔ کہا جاتا ہے "أَجِيْكَ حَيْثَا
 سَمَقًا" میں تم سے خالص محبت کرتے ہوں۔
 السَّمَاقُ وَالسَمُوْقُ: ایک درخت جس کا
 پھل بہت کٹا ہوتا ہے۔ پھل کو بھی کہتے ہیں
 واحد سَمَالِقُو وَسَمُوْقَةٌ۔
 السَّمِيْقُ: بل کا ہوا۔
 السَّمِيْقُ مِنَ الرَّجَالِ: البَا مَرُو۔
 اسْمَقُوْ اسْمَقُوْا: التَّوْمُ: بہت گرم ہونا۔
 سَمَكٌ (ن) سَمَكًا: السَّمِيْعُ: بلند کرنا۔ کہا جاتا
 ہے "سَمَكَ اللّٰهُ السَّمَاءَ" اللہ نے آسمان کو
 بلند کیا۔
 سَمَكٌ (ن) اسْمَكًا وَسَمُوْكًا وَسَمَكٌ (ن)
 سَمَاكَةً: بلند ہونا۔
 سَمَكٌ: السَّمِيْعُ: کسی چیز کو دیر پانا۔
 تَسَمَكٌ: بلند ہونا۔
 اسْتَسَمَكَ: التَّبَاثُ: کپڑوں میں سے لہا
 اِثْتَارِ کرنا۔ پھل کھانا۔
 السَّمَكُ: مہ۔ محبت یا محبت کی دیانت۔ ہر
 آدمی اور موٹی چیز کا قدر۔
 السَّمَكُ: مچھلی۔ ج سَمَاكٌ وَسَمُوْكٌ وَ
 اسْمَاكٌ واحد سَمَكَةٌ)
 السَّمَاكُ: چیز کے اٹھانے کا اوزار۔ ج

استعمال کرتی ہیں۔

السَّمِينُ - مونا _____ مِنَ الْكَلَامِ : باوق
مفتکر۔السَّمِينَةُ - السَّمِينِ کا مؤنث۔ ج سیمان۔
أَرْضٌ سَمِينَةٌ : بغیر خروالی زمین۔

المُسْمِينُ پیدا کی مونا۔

طَعَامٌ مُسْمِنٌ (مُسْمِنَةٌ) مونا کرنے والی خوراک۔

السَّمَانِيُّ - بئیر کی قسم کا ایک پرندہ۔ واحد و جمع
دونوں کے لیے اور کہا گیا ہے کہ واحد (سَمَانَاةٌ)

ہے۔ ج سمانیات۔

السَّمَنْجُونِيُّ - آسمانی رنگ والا۔ (جدید)

السَّمَنْدُو السَّمَنْدَلُ والسَّمَنْدَلُ - ایک قسم کا
پرندہ۔سَمَةٌ (ف) سَمُوْهَا۔ مدہوش ہونا _____
الْفَرْشُ : گھوڑے کا بغیر تھکن کے بہت تیز
دوڑنا۔سَمَةٌ - الإِبِلُ : بیکار چھوڑنا۔ صفت مفعولی
(سَمَةٌ)

السَّامِہُ - جِیران۔ ج سَمَةٌ۔

السَّمْهِيُّ - فضاء آسمانی۔ ترمرے (یعنی وہ چیز جو
گرمی کے زمانہ میں فضاء آسمانی سے کڑی کے
جالے کی مانند اترتی ہوئی معلوم ہوتی ہے)(_____) والسَّمْهِيُّ والسَّمْهِيُّ
والسَّمْهَاءُ والسَّمْهَاءُ، جھوٹی اور باطل
چیزیں۔سَمْهَجٌ - كَلَامَةٌ : جھوٹ بولنا۔ الحَيْلُ :
رسی مضبوط بنا۔ الشَّيْءُ : چھوڑنا۔_____ الدَّرَاهِمُ : رواج دینا۔ الجِبِينُ : قسم
میں تختی کرنا۔

السَّمْهَاجُ - جھوٹ۔

السَّمْهَدُ السَّمَامُ : کوبان کا بڑا ہونا۔

السَّمْهَدُ - خُطْبٌ وَخُتْ جِزْجِز۔

السَّمْهَدُ والسَّمْهَدُ - بڑے ڈیل ڈول کا
اونٹ۔السَّمْهَرُ - مضبوط و سخت ہونا۔ نیزہ کی طرح
سیدھا ہونا۔ الظَّلَامُ : بہت اندھرا ہونا۔السَّمْهَرِيُّ - مضبوط نیزہ۔ کہا جاتا ہے "زَمِخٌ"
سَمْهَرِيٌّ وَرِمَاحٌ سَمْهَرِيَّةٌ" فَدُ سَمْهَرِيٌّ

محتدل قدر۔

سَمًا يَسْمُوْ سَمُوًّا - بلند ہونا _____ البَصْرُ :
اُعتنا۔ کہا جاتا ہے "سَمُوْتُ إِلَيْهِ بَصْرِيٌّ" اس کیطرف میں نے نگاہ اٹھالی" و "سَمًا إِلَيْهِ بَصْرِيٌّ"
اس کی طرف میری نگاہ اٹھی۔ و "نَفْسُهُ تَسْمُوْ
إِلَى مَعَالِي الْأُمُوْر" اس کا نفس بڑے بڑے امورکی طرف مائل ہے _____ یہ : بلند کرنا _____
الْقَوْمُ : فکار کیلئے جانا (سَمًا يَسْمُوْ سَمُوًّا)
الزَّجْلُ زَيْدًا وَبَزِيدٍ : نام رکھنا۔سَمِيٌّ - الزَّجْلُ زَيْدًا أَوْ بَزِيدٍ : نام رکھنا _____
الشَّارِعُ فِي الْعَمَلِ : کام شروع کرنے والے کا
اللہ کا نام لیتا۔أَسْمَى - الشَّيْءُ : بلند کرنا _____ الزَّجْلُ زَيْدًا
بَزِيدٍ : نام رکھنا _____ هَمِينٌ بَلَدٌ إِلَى بَلَدٍ : روانہ
کرنا۔سَامِيٌّ مَسَامَاةٌ - الزَّجْلُ : فخر کرنے میں مقابلہ
کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لِأَيْسَامِيٍّ" فلاں سے فخر
میں مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔تَسَامِيٌّ تَسَامِيًّا - الْقَوْمُ : باہم فخر کرنا۔ ایک
دوسرے کو نام لے کر پکارنا _____ عَلَى الْخَيْلِ
گھوڑے پر سوار ہونا۔تَسْمِيٌّ - نام پانا _____ إِلَى وَبِالْقَوْمِ : منسوب
ہونا۔إِسْتَسْمَى اسْتِسْمَاءً : فکار کی جرائیں
پہننا۔ فکار کرنا _____ : کسی کی زیارت کو جانا۔ کسی
کے اندر خیر و صلاح معلوم کرنا۔

اسْتَسْمَى اسْتِسْمَاءً - نام پوچھنا۔

السَّامِيُّ - فاج سَامُوْنٌ وَ سَمَاءَةٌ - مؤنث
صامیۃ۔ ج سَامِيَاتٌ وَ سَوَامٌ۔ کہا جاتا ہے
"رَدَدْتُ مِنْ سَامِيٍّ طَرَفِيَّ" یعنی میں نے اس کےنخوت و غرور کو توڑ دیا۔ السَّامِيُّ : فکار کی اولی
جراہ پینے ہوئے فکار۔ ج سَمَاءَةٌ۔السَّمَاءُ - آسمان۔ فضاء واسع جو زمین کو احاطہ
کئے ہوئے ہو۔ ہر وہ چیز جو تم سے اوپر ہو۔ گھوڑے
کی پیٹھ۔ ہر چیز کی چمت۔ بارش۔ بادل۔ گھاس۔نیوں کی روحوں کے رہنے کی جگہ۔ ج سَمَاوَاتٍ
و سَمَوَاتٍ (الف کو صرف کتابت میں حذف کر
کے) وَ سَمِيٌّ وَ أَسْمِيَّةٌ (_____ وَ السَّمَاوَةُ) گھر کا

سَمَجْرٌ - وَ سَمَاوَةٌ كُلُّ شَيْءٍ : ہر چیز کا اُچھا بچہ۔

السَّمَاءُ - اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے "شَاعَ
سَمَاءُهُ" اس کی شہرت و نیک نامی پھیل گئی۔الاسْمُ وَ الْأَسْمُ - نام۔ وہ لفظ جو کسی جو ہر یا
عرض کی تعیین و تمیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس کا
ہمزہ ہمزۃ وصل ہے۔ ج أَسْمَاءٌ وَ أَسْمَاءٌ وَأَسْمَاءِيٌّ وَ أَسْمَاوَاتٌ اور بَسْمَلَةٌ میں ہمزہ کو
حذف کر دیتے ہیں اور دوسری جگہ باقی رکھتے
ہیں۔ بَسْمَلَةٌ کے معنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

الرَّحِيْمِ۔

اسم الجلالة : باری تعالیٰ کا نام۔

السَّمُّ وَ الِيسْمُ وَ السَّمَمُ - اسم کے لغت۔ کہا
جاتا ہے "هَذَا سَمَمُهُ" یعنی یہ اس کا نام ہے۔السَّمِيٌّ - بلند ہونے والا۔ سَمِيْكٌ : بہنام
نظیر۔

السَّمْوِيُّ - اسم کی جانب منسوب۔

المِسْمَاءَةُ - فکار کی اولی جراہ۔

السَّمْسِيُّ - مفع۔ مبین۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ
سَمْسِيٍّ قَوْمِيٍّ وَ مِنْ مَسْمَائِيَّتِيٍّ" وہ قوم کے
بہترین لوگوں میں سے ہے۔

سَمٌّ (ن) سَمًّا - السَّيْكِيْنُ : چھری تیز کرنا۔

"هَذَا أَيْضًا يَسْتَكُ عَلَى طَعَامٍ" یہ ان چیزوں
میں سے ہے جو تمہیں کھانے کی رغبت دلاتی ہے
_____ الزَّمِيْحُ : تیر پر پھل لگانا _____

الْأَسْتَانُ : سواک کرنا _____ الْعُقْدَةُ : گرہ

کھولنا _____ الإِبِلُ : اونٹ کو تیز پھل لگانا _____
الزَّجْلُ : کسی کو بھلا مارنا۔ دانت سے کاٹنا۔ دانتتوڑنا۔ حد سے زیادہ تعریف کرنا _____ الْأَمُوْرُ :
ظاہر کرنا۔ آسان کرنا۔ جاری کرنا۔_____ الظَّرِيْفَةُ : طریقہ اختیار کرنا _____
عَلَيْهِمْ السَّمَةُ : طریقہ مقرر کرنا _____الطَّيْنُ : مٹی کا برتن وغیرہ بنانا _____ الشَّيْءُ :
تصویر بنانا _____ الصَّاءُ او الثَّرَابُ : پانی یا مٹی

آہستہ آہستہ گرانہ۔

_____ الْعَيْنُ الذَّمْعُ : آنکھ کا آنسو بہانا _____

الْأَمِيْرُ عَيْنُهُ : بہتر نظام کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَمٌّ
فَلَانٌ ظَنُّنَا مِنْ الْخَيْرِ" فلاں نے خیر کا طریقہ

جاری کیا جس کو اس کی قوم پہلے سے نہیں جانتی

السَّنَابِ وَالسَّنَابَةَ - لَمْ يَجِدْهُ وَارِثًا وَلَا -

السَّنَابِ - بِمَثَلِ دَوْرَتَيْهِ وَلَا -

السَّنَابِ وَالسَّنَابَةَ وَالسَّنَابَةَ - زَمَانَهُ كَالِإِكِّ حَصَةً -

السَّنَابُ وَالسَّنَابُ وَالسَّنَابُ وَالسَّنَابُ وَ السَّنَابُ - غَضِبْنَاكَ بِمَثَلِ ثَمْرٍ وَالسَّنَابُ - خَبِثَتْ كَرْتُهُ وَالسَّنَابُ - جَمْعُهُ -

السَّنَابَةُ - ذُرٌّ -

السَّنَابُ ج - سَانَ كَالْحَمْرِ (جديد)

السَّنَابُ سَقٌّ وَالسَّنَابُ سَكٌّ - سَمُوسَةٌ (۳)

السَّنَابُ نَقِيٌّ - ذُو كَلْبِي - جَمْعُ السَّنَابِ

السَّنَابُ - كَمَرُ كَانَارِهِ وَالسَّنَابُ مِمَّنْ

السَّنَابِ - آرَأَيْتَ لَمَّا كَانَارَهُ - مِمَّنْ

يَنْتَضِيهِ الْخَلْدِيُّ - خُودًا كَالْبَالِي حَصَةً - مِمَّنْ

السَّنَابِ - اِبْتِدَاءً بِأَرْشٍ - هَرَجِزٌ كَادُولٌ - كَمَنْ نَقِيَ وَالِي

تَحْتَ زَيْمَانَ - ج - سَنَابِكٌ - كَمَا جَاءَ فِي "طَلَبِ

الرِّزْقِ فِي سَنَابِكِ الْأَرْضِ" - اس نے اطراف

زمین میں روزی تلاش کی۔

السَّنَابُ - زُرُوعٌ - خُوشٍ وَالِي هُوَ -

السَّنَابُ - زُرُوعٌ - كَبُرَ لَوْ كَانَتْ كَالْحَمْرِ

السَّنَابُ - مِمَّنْ الزَّرْعِ كَالْبُرِّ وَالسَّنَابُ - خُوشٌ

بَالِي - وَاحِدٌ (سَنَابِيْلٌ) ج - سَنَابِيْلٌ وَسَنَابِيْلَاتٌ - اِيكٌ

خُوشِيُو دَارِ كَلْبِ السَّنَابِ - السَّنَابُ الزُّوْمِيُّ - اِيكٌ خُوشِيُو

دَارِ بُولِيٍّ وَالسَّنَابَةُ - آسَمَانُ كَالِإِكِّ بِرَجِّ كَالْمَاءِ -

أَسَنَتْ - الْقَوْمُ - قَطْرًا زَوْهًا هُوَ -

سَنَتْ - الْقَدْرُ - بَانَتْ فِي زَيْرِهِ وَآلَتَا -

سَانَتْهُمَا - الْأَرْضُ - بِنَاتٍ تَلَّاشُ كَرْتًا -

عَامٌ (سَنَتْ وَ سَنَيْتُ وَ مَسَنَيْتُ) قَطْرًا سَالِي -

زَجَلٌ سَنَيْتُ - بَعْدَ نَقِيٍّ مَرْدٍ -

السَّنَابُ وَالسَّنَابُ - زَيْرُهُ أَوْ يَقُولُ بَعْضُ

شُعْبَانِيٍّ -

السَّنَابُ - مَسْكِينٌ جَسَدٌ كَمَا يَكْتُمُ هُوَ -

السَّنَابُ - بِدَعْلِقٍ -

السَّنَابُ (ان) سَنَابَةُ - الْقَوْمُ - كَبُرَ لَوْ كَانَتْ

كَلْبًا - دَوْرًا وَغَيْرَهُ بِرَدِّ حَمْرِ كَالْمَاءِ (۳)

السَّنَابُ - جَمْعُ السَّنَابِ -

السَّنَابَةُ - الْمِيْزَانُ - بِلَاتٍ - ج - سَنَابَاتٌ

لَوْ كَانَتْ تَمَارَهُ لَوْ كَانَتْ لَوْ كَانَتْ لَوْ كَانَتْ

السَّنَابُ - طَرِيقَةٌ - كَمَا جَاءَ فِي "إِسْتِقَامَ فُلَانٌ

عَلَى سَنَابٍ وَاحِدٌ" - فُلَانٌ اِيكٌ بِي طَرِيقَةٍ بِرَقْمٍ رَا

_____ "إِفْضَ عَلَيَّ سَنَابَكَ" - تَمَّ اسْمُهُ طَرِيقَةٍ بِر

جَلِيٍّ وَ"مَرَّ السَّنَابُ فِي سَنَابِهِ" - تَمَّ سَيِّدُهُ هَاكُلٌ كَمَا

إِدْرَاهُ أَوْ هَرَمِيْلٌ هُوَ - (۱) _____ وَالسَّنَابُ وَالسَّنَابُ

وَالسَّنَابُ مِمَّنْ الطَّرِيقُ - كَشَاهِدٌ رَاسِتٌ - بِرَاسِتٌ -

السَّنَابَةُ - مَسَنٌ كَالْمَاءِ مَرَّةً مَرَّةً وَرَجْمًا - نَادَهُ جَمْعًا -

السَّنَابَةُ - فَصَلَتْ - طَرِيقَةٌ - طَبِيعَةٌ - شَرِيعَةٌ - جَرِي

يَا اس كَادَارَهُ - ج - سَنَابُ -

أَهْلُ السَّنَابَةِ - وَهُوَ لَوْ كَانَتْ جَوْ حَضْرَتِ ابْنِ كَرِيْمٍ

عَمْرًا وَرَقْمًا عَمْرًا عَمْرًا عَمْرًا عَمْرًا عَمْرًا عَمْرًا

السَّنَابَةُ - اِسْلَامٌ كَالِإِكِّ بِرَافِقَةٍ - جَوْ حَضْرَتِ كِي جَانِبِ

مَسْنُوبٌ هُوَ - وَاحِدٌ (سَنَابُ)

السَّنَابَةُ - دَوْرٌ مِمَّنْ دَالًا كَلْبًا - اِسْمَةٌ مِمَّنْ الْقَوْمُ -

لَسَنٌ كَالِإِكِّ جَوَا -

السَّنَابُ - نِيْزٌ كَالِإِكِّ - ج - اِسْمَةٌ - السَّنَابُ -

سَانَ - كَمَا جَاءَ فِي "سَنَابُ سَكِينَةُ بِالسَّنَابِ" - اس

نَعِيٍّ جَمْرِيٍّ كُوَسَانٍ سَعِيٍّ كَمَا -

السَّنَابُ - مَجْنُونٌ -

السَّنَابُ - سَانَ بِرَافِقَةٍ كَمَا يَكْتُمُ هُوَ - كَبُرَ لَوْ كَانَتْ

جَوْ كَرْتُهُ وَهُوَ زَيْمَانٌ جَسَدٌ كَمَا يَكْتُمُ هُوَ -

سَنَابُ مِمَّنْ مَرْدٌ - اِسْمٌ مِمَّنْ مَرْدٌ مِمَّنْ مَرْدٌ مِمَّنْ

اِيكٌ طَرِيقٌ بِرَافِقَةٍ وَاحِدٌ هُوَ - رِيْتٌ كَالِإِكِّ ثَلِيْدٌ - ج -

سَنَابُ -

السَّنَابُ - سَانَ جَسَدٌ بِرَافِقَةٍ وَغَيْرُهُ كَمَا يَكْتُمُ هُوَ

جَسَدٌ -

السَّنَابُ - مِمَّنْ الدَّوَابُّ - بَرِيٌّ عَمْرًا وَجَانُورٌ - ج -

مَسَانٌ -

السَّنَابُ - مِمَّنْ - حَمَامَةٌ مَسْنُونٌ - بِرَدِّ دَوْرٍ كَبُرَ

زَجَلٌ مَسْنُونٌ وَوَجْهُ - بِرَدِّ دَوْرٍ كَبُرَ جَسَدٌ هُوَ -

مَرْمَرٌ مَسْنُونٌ - نَزْمٌ جَمْعًا كَمَا يَكْتُمُ هُوَ -

طَرِيقٌ (مَسْنُونٌ وَ مَسْنُونٌ) - اِدْرَاهُ وَدَالًا

رَاسِتٌ -

مَسْنُونٌ - الطَّرِيقُ - رَاسِتٌ كَمَا نَمِيْلٌ حَصَةً -

المَسْنُونُ - ثَمْرٌ -

السَّنَابُ - تَحْتَ بَرَاكِيٍّ -

سَنَابُ - الْأَرْضُ - زَيْمَانٌ كَالِإِكِّ سَعِيٍّ

هُوَ -

سَنَابُ - السَّنَابُ - جَمْرِيٍّ تَمْرِيٍّ كَمَا -

السَّنَابُ - نِيْزٌ - بَرِيٌّ بِرَافِقَةٍ لَكَ

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - كَمَا جَاءَ فِي "السَّنَابُ

الْقَوْمُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ كَمَا جَاءَ فِي "السَّنَابُ

السَّنَابُ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

السَّنَابُ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ - اِسْمٌ كَالِإِكِّ -

القنبر: قبر کو کوہان نما کرنا
المكئيل: پیمانہ کو بھر کر کوہان جیسا کرنا۔
أسنم: الكلا التجيز: موٹے کوہان والا کرنا
الدخان: دھوئیں کا بلند ہونا۔ أسنمت
القار: آگ سے پٹ اٹھنا۔
تسنم: القنفة: اونٹنی کے کوہان پر سوار ہونا
الشق: کسی چیز پر چڑھنا۔ فلانا:
غفلت میں پکڑ لینا۔ ه الشيب: بڑھانا۔
بچل جانا۔
السيم: من الإبل: بڑے کوہان والا اونٹ
من الثبات: زمین سے بلند ٹھونے
والے پودے۔
السنام: کوہان۔ ج أسنمة: کہا جاتا ہے
”فلان سنام قومہ“ وہ اپنی قوم میں بڑا ہے۔
سنمة: الثبات: عیادت کا اوپر کا حصہ جیسے
بال، ٹھونڈ، زجل (سنیم) عالی مرتبہ مرد۔
الشيم: گائے۔
التسنيم: جنت کے ایک چشمہ کا نام۔
المسنم: من الجمال: اونٹ جس پر
سواری نہ کی جائے۔
السينمات: چاند۔ چور۔ رات میں نہ سونے
والا۔
السنموزة: ایک قسم کی مچھلی جس کو تنک گا
کر خشک کرتے ہیں۔ (جدید)
سنہ (س) سنھا: بہت برسوں والا ہونا۔ صفت
(سنیہ) الطعام أو الشراب: بگڑ جانا خیر
ہونا۔
سنة الزجل: سال وار محالہ کرنا۔
سنة التخله: ایک سال کے نانہ سے پھل
لانا۔
تسنه: بہت برسوں والا ہونا۔ العنيز:
بدبو دار ہونا۔ عنده: ایک سال تک
اقامت کرنا۔
السنه: من التخل: ایک سال کے نانہ
سے پھل دینے والا درخت خرما۔ خشک سالی والا۔
کہا جاتا ہے ”سنه سنه“ بغیر بارش وغیر
پیداوار کا سال۔
تسناتسنو سنواو سنواو و سنواو سنایة:

نکل جانا۔
أسنف: البعير: چلنے میں گردن آگے بڑھانا۔
أسنفت القنفة: اونٹنی کا اونٹ سے آگے نکل جانا
الريخ: ہوا کا تیز چلنا۔ التزق: بجلی کا قریب
ظاہر ہونا۔ الأثر: مضبوطی سے کرنا
البعير: تنگ باندھنا۔
السنف: لکڑی جو جوتوں سے خالی ہو، پھلی کا
چھلکا۔ تاج سنوف۔
السنف: ایک تلخ دانہ جو گیہوں، جو میں ہوتا
ہے۔ جماعت۔ صنف۔ پھلی۔ واحد (سنفة) ج
سنف۔ ج سنفة۔
السنيف: بچھونے کی گوٹ۔ ایک کپڑا جس کو
اونٹ کے مونڈھوں پر باندھتے ہیں۔ ج سنفف و
سنفف وأسنفة۔
المسنفة: من السنين: خشک سال۔ من
الازاضي: قحط زدہ زمین۔
سنتاف: البعير: اونٹ کا تنگ۔ ج سنفف و
سنفف وأسنفة۔
السنتان والسنتان: دو لکڑیاں جن میں
کنوئیں کی چرخی چبھی ہوئی ہوتی ہے۔
المستاف: وہ اونٹ جو کجاوہ کو ادھر ادھر کرتا
ہو جس کی وجہ سے تنگ باندھنا پڑے۔ ج
مسائيف۔
سنيق (س) سنقا: بدبھمی ہونا (بقول بعض
سنيق صرف حیوانات کے لیے مخصوص ہے)۔
أسنقة: التهنيم: ناز و نعمت والا ہونا۔ خوش حال
ہونا۔
السنقر والسنقو: ایک شکاری پرندہ جو
شکرے سے بڑا اور خوبصورت ہوتا ہے۔
السنك: نمایاں راستے۔
السنكسار والسنكسار: عنده
التصرايين نصرانيون کے اولیاء و صالحین کے
حالات کا مجموعہ جو گرجوں میں پڑھا جاتا ہے۔
(جدید)
سنيم (س) سنمنا: البعير: بڑے کوہان والا ہونا
التبث: خوش یا پھول ٹکانا۔
سنم: الكلا البعير: موٹے کوہان والا کرنا
الإتاء: برتن بھرنا۔ الشق: بلند کرنا

سنسنت: الریخ: بھڑکی ہوا چلنا۔
السینسین: پیاس۔ پہلی کی ہڈیوں کے سرے۔
ج سنسین (س) والسنسینة: ریزہ کی
ہڈیوں کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے ”جاءت الریخ
سنسین“ ہوا ایک ہی طریقہ پر آئی۔
سنظ (ک) سنظا و سنظ (س) سنظا۔
کوچ یا بگی ڈائری والا ہونا۔ صفت (سنظ و
سنظا و سنظ) ج سنظ و سنظا۔
السنظ: گنا پھانچا۔
السنظبة: بے ذول لبائی۔
السنظاب: لوہار کا تھوڑا۔
السنظير والسنظور: ایک قسم کا ستار جس
کے تار تارے کے ہوتے ہیں۔
سنظل: الزجل: سر جھکا کر چلنا۔
السنظلة: مص۔ لبائی۔
السنظالة: سر جھکا کر سکون کی چال۔
السنظيل: لبائی۔
السنظنل: مضم۔ ست چال چلنے والا۔ جو
قریب کرنے کے ہو۔ بے ذول جسم کا بڑے پیٹ
والا۔
السنظليل: لمبے قد والا۔
سنع (س) و سنع (ک) سنعا و سنوعا۔
حسین و خوبصورت ہونا۔ صفت مذکر (سنیع)
مؤنث سنیعة۔
أسنع: الغلام: لڑکے کا طویل و خوبصورت
ہونا۔ الزجل: خوبصورت بچوں والا ہونا۔
گئے کا درد والا ہونا۔ الشق: زیادہ کرنا۔
السنع: گئے کے مقام کی بریدگی۔ گئے کا جوڑ۔
ج سنعة و أسناع۔
السنع: خوبصورتی۔
الأسنع: لبائی۔ بلند۔ کہا جاتا ہے ”هذا أسنع
من ذاک“ یہ اس سے افضل ہے۔ مؤنث
سنعا۔
السنیعة: پہاڑی راستہ۔ ج سنعا۔
السنعبة: نیولا۔ اوپر والے ہونٹ کے اندرونی
حصہ میں اُبھرا ہوا گوشت۔
سنف (ن) سن: سنفا: البعير: اونٹ پر تنگ
باندھنا۔ القنفة: اونٹنی کا اونٹ سے آگے

السَّهْبُ: تیز ہوا کی گزرگاہ۔ جہاں تیز ہوا چلے۔

السَّهْبُ: ہر حق و باطل میں بولنے والا۔ صبح و بلخ۔

سَهَجٌ سَهَجَةٌ: ڈرتے ہوئے دوڑنا۔

سَهْدٌ (س) سَهْدًا وَ تَسَهَّدَ: بیدار رہنا۔ کم نیند والا ہونا۔

سَهْدَةٌ: بیدار رکھنا۔ کہا جاتا ہے "سَهْدَةٌ الْهَمِّ" اس کو غم نے بیدار رکھا۔

السَّهْدُ وَالسَّهَادَةُ: بے خوابی۔

السَّهْدُ: کم نیند والا۔ کہا جاتا ہے "زَجْلٌ سَهْدٌ" کم سونے والا مرد "عَيْنٌ سَهْدٌ" کم سونے والی آنکھ۔

السَّهْدَةُ: بیداری اور کہا جاتا ہے "مَازَأَيْتُ مِنْهُ سَهْدَةً" میں نے اس کے اندر نخر کی طرف رغبت نہیں دیکھی۔

السَّهْوُ: بہت لبا۔ کہا جاتا ہے "غَلَامٌ سَهْوٌ" نازک اندام جوان لڑکا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ (أَسْهَدُ مِنْكَ) أَيًّا" وہ تم سے زیادہ ہوشیار ہے۔

السَّهْوُ: غم۔ کم نیند والا۔

السَّهْدَرُ: بچہ۔

سَهْرٌ (س) سَهْرًا: ساری رات بیدار رہنا۔ صفت (سَاهِرٌ وَ سَهْرَانٌ) اور کہا جاتا ہے "لَيْلَةٌ سَاهِرَةٌ" نٹ نٹ کھدالی رات۔ سَهْرُ النَّبِيِّ: بچل کارات کو چکنا۔

سَهْرٌ: جاگتے رکھنا۔

سَاهِرَةٌ: اکٹھے جانا۔

السَّهْرُ: بیداری۔ کہا جاتا ہے "زَجْلٌ سَهْرٌ الْعَيْنِ" کم سونے والا مرد۔

السَّهْوُ: بیداری۔ زیادتی۔ چاند کابلہ۔ چاند۔ کہا جاتا ہے "ذَخَلَ الْقَمَرُ فِي السَّهْوِ" یعنی چاند گہن میں آیا۔ سَاهُوْرٌ عَيْنِ الْمَاءِ: چشمہ کا منبع۔ السَّهْوُ: مینے کے باقی ٹودوں۔

السَّهَادُ وَالسَّهْرَةُ: بہت بیدار رہنے والا۔

السَّهْوَةُ: السَّهْوُ: کم سونے والا۔ زمین اور بقول بعض سطح زمین۔ بیشہ جاری رہنے والا چشمہ۔ چاند۔ خرقا ک بچل۔

الْأَسْهَرَانُ: آنکھ کی دو رگیں، ناک کی دو

آسانی و نرمی کرنا _____ الشَّيْءُ: حنجر ہونا _____ الْقَفْلُ: کالا کھانا _____ الرَّجُلُ: راضی کرنا۔

السَّيْءُ: بچل۔ ریشم۔ ایک دست آور دو اکا نام۔ السَّيْءُ: مہ۔ بمعنی آبی۔ بلندی۔ روشنی۔ السَّيْءُ: شریف و عالی مرتبہ مرد۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سَيِّئٌ" (جمع کے وزن پر مفرد ہے) السَّيْءُ: عالی مرتبہ۔ مؤنث سَيِّئَةٌ۔

السَّيْءَةُ: تمام چیز۔ پوری کی پوری۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُهُ بِسَيِّئِهِ" میں نے اس کو سارا کاسارا لے لیا۔

السُّنُوْءُ: ابابیل۔ واحد سُنُوْءٌ وَ سُنُوْءِيَّةٌ۔ سَهَبٌ (ف) سَهَبًا: الشَّيْءُ: لینا۔

أَسْهَبَ: الْكَلَامَ وَ فِي الْكَلَامِ: بس گفتگو کرنا۔ صفت (مُسْهَبٌ وَ مُسْهَبٌ) مائی تار ہے۔

الرَّجُلُ: بہت دینا۔ حریص و لالچی ہونا۔ الْقَرُوشُ: گھوڑے کا کشادہ قدم رکھنا۔ أَسْهَبُوا الدَّابَّةَ: جانور کو چرنے کیلئے چھوڑ دینا۔

أَسْهَبَ: مدہوش ہونا۔ غفلت کھو دینا یا زیادتی محبت یا مرض یا خوف کی وجہ سے رنگ بدل جانا۔

أَسْهَبَتِ الْبَيْتُ: زیادہ گہرائی کی وجہ سے پانی نہ ملنا۔ صفت (سَهْبَةٌ وَ مُسْهَبَةٌ)۔

أَسْهَبَ: بہت دینا۔ السَّهْبُ: مہ۔ بیابان _____ مِنَ الْخَيْلِ: کشادہ قدم سے تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ وقت۔ کہا جاتا ہے "مَضَى سَهْبٌ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔

السَّهْبُ وَالسَّهْبُ: وسیع و ہموار میدان۔ کہا جاتا ہے "قَطَعُوا السَّهْبًا وَ السَّهْبًا مِنَ الْأَرْضِ" انہوں نے زمین کے ہموار میدان کو طے کیا۔

السَّهْبَلُ: دلاور۔ سَهَبَتِ (ف) سَهَبًا: الرِّيحُ: ہوا کا لگانا تیز چلنا _____ الرِّيحُ الْأَرْضُ: ہوا کا زمین کو صاف کر دینا _____ الطَّيْبُ: خوشبو گھستا _____ الْقَوْمُ لَيْلَتَهُمْ: تمام رات چلنا۔

السَّاهِجُ: ج سَهَجٌ (و السَّهِيحُ وَ السَّهْوُجُ وَ السَّهْوُجُ: جمن الأرتاح: تیز ہوا میں۔

السَّحَابُ الْأَرْضُ: بادل کا زمین کو سیراب کرنا _____ النَّبِيُّ: بچل کو دینا _____ النَّبَاتُ: دروازہ کھولنا۔ سَمَتِ النَّارُ: روشنی بلند ہونا _____ السَّمَاءُ: برتا۔ سَمَاعِلِي الدَّابَّةَ: جانور پر پانی لانا _____ الدَّلْوُ: ڈول کو کونہیں سے کھینچنا۔

سَمَانِي سَمَانَةٌ وَ سَمَانَةٌ: الرَّجُلُ: ایک سال کیلئے معاہدہ کرنا یا اجرت پر رکھنا۔

فَسَمِي تَسَمِيًا الشَّيْءُ: چڑھنا۔ "تَسَمَّتِ الْعُقْدَةُ" گرہ کھلنا۔

السَّنَةُ: سال۔ ج سُنُونٌ وَ سِنُونٌ وَ سَنَوَاتٌ وَ سَنَهَاتٌ: تغیر سَنِيَّةٌ وَ سَنِيَّةٌ وَ سَنِيَّةٌ: نسبت کیلئے سَنَوِيٌّ وَ سَنِيٌّ۔

سَنَةٌ سَنَوَاءٌ: سخت سال۔ السَّنَاءُ: بچل کی چمک۔ ایک دست آور دو اکا نام۔

السَّنَانِي: فاپانی لانے والا۔ ج سَنَانَةٌ۔ السَّنَانِيَّةُ: رہت۔ اونٹنی جس پر کونہیں سے پانی لایا جائے۔ ج سَنَوَانٌ۔

السَّنُونُ وَ السَّنِينِي: رہت سے سیراب کی ہوئی چیز۔

السَّنَانَةُ: بند جو سیلاب کو روکے۔ ج سُنُونَاتٌ وَ سُنُونِيَّاتٌ: کہا جاتا ہے "عَقْدُوْا امْتِنَانِيَّاتٍ لِيَحْيِيَ الْمَيَّاتُ" انہوں نے پانی روکنے کے لیے بند بنا دیا۔

سَنِي (س) سَنَاءٌ: بلند مرتبہ ہونا۔ سَمَانِي سَمَانَةٌ وَ سَمَانَةٌ: الرَّجُلُ: خوشنود کرنا۔ مدارات کرنا۔ مقابلہ میں نرمی کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَمَانِيَّةٌ حَتَّى اسْتَخْرَجَتْ مَا عِنْدَهُ" میں نے اس کے ساتھ نرمی کر کے جو کچھ اس کے پاس تھا سب نکھلوا لیا۔

أَسْنَى اسْتَأْنَى النَّبِيُّ: بچل کو چکنا۔

التَّارُ: آگ روشن کرنا _____ لُدُّ الْحَازِنَةِ: بیش قیمت انعام دینا "جَاوَزْتُهُ فَاسْتَنَى جَوَارِي" میں اس کا پردوس تھا۔ اس نے پردوس کا حق ادا کر دیا _____ الْقَوْمُ: ایک سال کسی جگہ مقیم رہنا۔

تَسَنَّى: الأَمْرُ: تیار ہونا _____ الرَّجُلُ:

لاغری کی وجہ سے رنگ خفیر ہوتا۔
وَجْهَةٌ: توری چڑھا ہوا ہوتا۔ سَهْمَةٌ: قرعہ اندازی میں غالب ہونا۔
سَهْمٌ: لوکی پٹ لگانا۔
سَاهَمَةٌ: قرعہ اندازی کرنا۔
أَسْهَمَ: لَهُ فِي كَذَا: حصہ مقرر کرنا۔
بَيَّنَ الْقَوْمَ: قرعہ ڈالنا۔ فِي الْكَلَامِ: لمبی گفتگو کرنا۔ صفت (مُسْهَمٌ مُسْهَمٌ)
تَسَاهَمَ وَاسْتَهَمَ: الْقَوْمَ: باہم قرعہ اندازی کرنا۔ تَسَاهَمُوا الشَّيْءَ: باہم تقسیم کرنا۔
السَّهْمُ: ج. سِهَامٌ: قرعہ اندازی کا تیر۔ تیر۔ سَهْمٌ الزَّامِي: ایک ستارہ۔ ج. أَسْهَمٌ وَسَهْمَةٌ وَسُهْمَانٌ: حصہ۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْهُ فِي الْقِسْمَةِ سُهْمَانٌ" تقسیم میں اس کو ذرا حصہ ملا۔
السَّهْمَةُ: قرابت۔ تقسیم۔ حصہ۔
السُّهْمُ: آفتاب کی کرنیں۔ حرارت غالبہ۔ پیاس۔ حلقاء۔ حکماء۔
السَّاهِمَةُ مِنَ النَّوْقِ: دہلی بلی اونٹنی۔
السَّهَامُ: لوکی گرمی گرمی کی تیزی۔ ترمرے یعنی کڑی کے جالے کی طرح ایک چیز جو سخت گرمی کے زمانہ میں فضا میں معلوم ہوتی ہے۔ اونٹوں کی ایک بیماری۔
السَّهَامُ: دلے پن کے ساتھ رنگ خفیر ہونا۔ اونٹوں کی ایک بیماری۔
السَّهْمِيْمُ: شریک۔ حصہ دار۔
السُّهْمُ: لاغری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا دوغلا گھوڑا۔
السَّهْمَةُ مِنَ الْإِيَابِ: دھاری دار کپڑا۔
السُّهْمُ وَالْمُسْهَمُ: مِنَ الْإِيَابِ: سُهَامٌ بیماری والا اونٹ۔
السُّهْمُ: عقاب۔
سَهَا يَسْهُو سَهْوًا وَسَهْوًا فِي الْأَمْرِ وَعَنِ الْأَمْرِ: غافل ہونا۔ بھولنا۔ دل کا دوسری طرف متوجہ ہونا۔ صفت (سَاهٍ وَسَهْوَانٌ)
أَيْدِي بَسْتِ نَگاہ سے دیکھنا۔
سَهْوٌ يَسْهَوُ سَهْوًا: الْفَرْشَ: گھوڑے کا آسانی سے تابع ہونا۔ صفت (سَهْوٌ

سَهْلٌ (ک) سَهْوَةٌ: الْمَكَانُ: نرم ہونا۔
سَهْلٌ (ک) سَهْوَةٌ وَسَهْلَةٌ: الْأَمْرُ: آسان ہونا۔ صفت (سَهْلٌ وَسَهْلٌ)
سَهْلٌ: الْأَمْرُ لَهُ وَعَلَيْهِ: آسان کر دینا۔ الْمُضْضِعُ: نرم کر دینا۔
سَاهَلَةٌ مُسَاهَلَةٌ: نرم برتاؤ کرنا۔
أَسْهَلَ: پھاڑے میدان زمین کی طرف اترنا۔
وَالدَّوَاءُ: بھیت کو نرم کرنا۔ دست لانا۔
الزَّجْلُ: لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا۔ الْأَمْرُ: نرم پانا۔
أَسْهَلَ: الزَّجْلُ: اسامال والا ہونا۔
تَسَهَّلَ: الْأَمْرُ: آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا تَسَهَّلَ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ" میرے لیے اس کا کرنا آسان نہیں ہوا۔
تَسَاهَلَا: ایک دوسرے سے نرمی کا برتاؤ کرنا۔
تَسَاهَلُ الْأَمْرُ عَلَيْهِ: آسان ہونا۔
إِسْتَهَلَ: الْمَكَانَ: نرم سمجھ کر ثابت کرنا۔
اسْتَسَهَلَهُ: آسان سمجھنا۔
السَّهْلُ: نرم زمین۔ ہموار زمین۔ ج. سَهْوَلٌ وَ سَهْوَلَةٌ: اور نسبت کے لیے (سَهْلِي) جیسے "بَعِيْرٌ سَهْلِيٌّ" نرم زمین میں چرنے والا اونٹ اور تم کہتے ہو "أَرْضٌ سَهْلٌ" سَهْلُ الْوَجْهِ: کم گوشت والا چہرہ۔ سَهْلُ الْخَلْقِ: نرم اخلاق والا اور کسی کو خوش آمدید کہنے کے موقع پر کہا کرتے ہیں "أَهْلًا وَسَهْلًا" یعنی تم اپنے ہی لوگوں میں آئے۔ اجنبیوں میں نہیں اور تم نے نرم زمین پر قدم رکھا۔ سخت زمین پر نہیں۔
السَّهْلَةُ وَالسَّهْلُ: ریت جیسی مٹی جس کو پانی بہلاتا ہے۔ السَّهْلَةُ: اسامال۔
الإِسْهَالُ: عِنْدَ الْأَطْيَاءِ: دست آنا۔
السَّهْوَلُ: دست آور دوا۔
سَهْلِيلٌ: ایک روشن ستارہ جو بلاو عرب میں گرمی کے آخر زمانہ میں صلع ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ اس کے طلوع ہونے پر گھریلے مر جاتے ہیں۔ مٹی کہتا ہے۔
وَتَلَكُّوْهُمُ مَوْتُهُمْ وَأَنَا سَهْلِيْلٌ
ظَلَعْتُ بِمَمَوْتِ أَوْلَادِي الزَّيْنَاءِ
سَهْمٌ (ف) وَسَهْمٌ (ك) سَهْوَةٌ وَسَهْوَةٌ:

رگیں۔
السَّهْوَارُ: بیداری پر قادر۔
سَهْفٌ (س) سَهْفًا: الْفَيْئِلُ: محلول کازرغ کی حالت میں ترپنا۔
سَهْفٌ (س) سَهْفًا: بست پیاسا ہونا۔ ہلاک ہونا۔
إِسْتَهْفَهُ: خفیف سمجھنا۔
السَّاهِفُ: نا۔ ہلاک ہونے والا۔ جس پر جان کنی کے وقت پیاس کا غالب ہو۔ سَاهِفٌ الْوَجْهِ: خفیر چہرے والا۔
السَّهْفُ: نہ۔ مچھلی کے سننے۔
السَّهَافُ: پیاس کی بیماری جس میں سیرابی نہیں ہوتی۔ طَعَامٌ مُسَهْفَةٌ: بست پانی پلانے والا کھانا۔ زَجْلٌ مُسَهْفٌ: بست پانی پینے والا جو سیراب نہ ہوتا ہو۔
السَّهْوَقُ: بڑا جھوٹا۔ لمبی پنڈلیوں والا۔ درختوں کا شاداب تانا۔
السَّهْوَقُ: کشارہ قدم والا۔
سَهَكْتُ (ف) سَهَكًا: الرِّيْحُ: ہوا کا تیز چلنا۔ الرِّيْحُ الثَّرَابُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ: غبار اُڑانا۔ الشَّيْءُ: کسی چیز کو گھمنا۔
سَهَكْتُ سَهْوَكًا: الذَّابَّةُ: جانور کا آہستہ چال چلنا۔
سَهَكٌ (س) سَهَكًا: بدبودار ہونا۔ صفت (سَهَكٌ) کہا جاتا ہے "يَدِي سَهَكَةٌ مِنَ السَّمَكِ" میرا ہاتھ مچھلی کی وجہ سے بدبودار ہے۔
السَّهَكُ وَالسَّهَكَةُ وَالسَّهْوَكَةُ: ہمینہ یا سڑے ہوئے گوشت یا مچھلی کی بدبو۔ السَّهَكُ: لوہے کا رنگ۔
رِيْحٌ (سَاهِكَةٌ) بست تیز ہوا۔ ج. سَاهِكٌ وَسَاهِكَاتٌ: (رِيْحٌ سَهْوَكٌ وَسَهِيْكٌ وَسَهْوَكٌ وَمَسْهَكَةٌ) بست تیز ہوا۔
السَّهِيْكُ: غبار جس کو ہوا اُڑا دے۔
السَّهَاكُ وَالْمَسْهَكُ: ہوا کی تیزی کی طرح بلاغت سے گفتگو کرنے والا۔ الْمَسْهَكُ مِنَ الْخَيْلِ تيز رفتار گھوڑا۔
السَّهَكُ وَالْمَسْهَكَةُ: تیز ہوا کی گزر گاہ۔

أَسْهَى الزُّجْلُ: سوه بنانا (دیکھنے کی نظر
سنہوہ)
سناہی۔ الزُّجْلُ فِي الْمَعَاشِرَةِ: نری کرنا۔
خوش خلقی کا برتاؤ کرنا۔ ہ: عاقل کرنا۔
استزاع کرنا۔
سَنَاهَةٌ: فریبان میں گرم کر کے خشک کرنا۔
السُّهْوَةُ: سکون۔ نری۔ کہا جاتا ہے "أَفْعَلُهُ
سُهُوًا رَهْوًا" یعنی اس کام کو بغیر کسی تقاضے کے
آسانی و نری سے کرو۔ "مَاءٌ سُهُوٌ" تھرا ہوا
صاف پانی "جَمَلٌ سُهُوٌ" نرم ناچدار اونٹ
"أَمْرٌ سُهُوٌ" نرم کام۔ "رَيْحٌ سُهُوٌ" نرم ہوا۔ جن
سہاۃ۔
السُّهْيُ وَالسَّهَاءُ: بات نقش صغریٰ میں بہت
ہی چھوٹا سا ستارہ۔ اور اسی سے مثل ہے "أُرَيْفَهَا
السُّهْيُ وَفُرَيْسِي الْقَمَرِ" جو سوال از آسمان و
جواب از نری مان کے موقع پر ہوتے ہیں۔
السُّهْوُ وَالسُّهْوَاءُ: رات کا ایک حصہ۔
السُّهْوَةُ: السُّهْوُ كَالْمَوْتِ۔ سہا کا اسم مرۃ
ج۔ سہا: کانس۔ متابی۔ طاغیہ
روشدان۔ سخن کے سامنے کا پردہ۔ پانی کے
سامنے کا شیدہ جو اعراب قائم کیا کرتے تھے۔ پتھر کی
چٹان پاگلی۔ نرم کرنا۔
السَّاهِي: قا۔ کہا جاتا ہے "بَعِيضُ سَنَاوَرَاهُ" یعنی
نرم رفتار اونٹ۔ ج جَمَالٌ سَنَاوَرُوَاهُ
الأنساهی۔ الوان۔ رنگ (اس کے لیے مفرد
نہیں)۔
سُهُوَكَةٌ: بچھاڑنا۔ ہلاک کرنا۔
تَسُهُوَكٌ: بچھاڑنا۔ ہلاک ہونا۔ پشت پھیرنا۔
نرم چلنا۔
سَاءَةٌ يَسُوءُ سَوَاءٌ السُّنَى: قبیح ہونا۔ برا ہونا۔
کہا جاتا ہے "سَاءَةٌ تَأْتِي سَوَاءٌ" اس کی عادت
بری ہے۔
سَاءَةٌ يَسُوءُ سَوَاءٌ وَسَوَاءٌ وَسَوَاءٌ قَوَّ سَوَاءَةٌ
وَسَوَاءَةٌ وَمَسَاعٌ وَمَسَاءَةٌ وَمَسَاءَةٌ
وَمَسَائِيَةٌ وَمَسَائِيَةٌ الْأَمْثَرُ فَلَانًا: عملیں کرنا۔
مکرہ سلوک کرنا۔ یہ ظننا: برا گمان کرنا۔
سَوَاءَةٌ تَسُوهُوَةٌ وَتَسُوهُوَةٌ: خراب کرنا۔ بگاڑنا۔
سَوَاءٌ عَلَيْهِ عَمَلَةٌ: عیب لگانا۔ سرزنس کرنا۔

أَسَاءَ إِسَاءَةً السُّنَى: خراب کرنا۔ بگاڑنا
السُّنَى: بگاڑنا۔
إِسْتِئَاءٌ: عملیں ہونا۔ کہا جاتا ہے "سَاءَةٌ
فَأَسْتِئَاءٌ" اس نے اسے عملیں بنایا اور وہ عملیں
ہو۔
السُّوَةُ: ساء ہ کا اسم۔ آنت۔ شروفسار۔ ج
أَسْوَاءُ۔
السُّوَةُ: ساء۔ زُجْلٌ سَوِيٌّ: وَزُجْلٌ السُّوِيُّ:
بدکار مرد و السُّوِيُّ: فسار۔ آگ۔ آگہ کی کمزوری۔
السُّوِيُّ: قبیح۔ برا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سُوِيٌّ الظَّنِّ"
وہ لوگوں سے بدگمان ہے۔
السُّوِيَّةُ: السُّوِيُّ كَالْمَوْتِ۔ بڑائی۔ گناہ۔ ج
مَسِيئَاتُ۔
السُّوَةُ: فاحشہ۔ بڑی عادت۔ شرمگاہ۔ ج
سُوَاتُ۔
الْأَسْوَاءُ: اسم تفضیل مَوْتٌ سُوَايٌ۔ ۱۲۔
السُّوَايُ: جنم کی آگ۔
السُّوَةُ: بڑی عادت۔ بد عمل عورت۔
الْمَسَاءَةُ: بڑا قول یا فعل۔ ج مَسَاوِيٌّ۔
الْمَسَاوِيٌّ: بڑائیاں۔ عیوب۔ نقائص۔
السُّوِيَّةُ: دور کا سفر۔
السُّوِيَّةُ: گیسوں کی شراب۔
سَاجٌ يَسُوجُ سَوَاجًا وَسَوَاجًا وَسَوَاجًا:
آہستہ آتا جانا۔
سَوَاجٌ وَسَوَاجٌ: الكَرْمُ وَنَحْوُهُ أَوْ عَلَى
الكَرْمِ: انگوروں وغیرہ میں باڑ لگانا۔
السَّبِيحُ: دیوار۔ انگور وغیرہ کی باڑ۔ ج
سَبِيحَاتُ وَأَسْوَجَةٌ وَسُجٌّ۔
السَّاجُ: ساھو کار دخت۔ ج سَبِيحَانٌ: واحد
(سباجۃ) کشادہ گول چادر۔
كَيْسَاءٌ (سُجٌّ) گول کیا ہوا کپڑا۔
السَّاحَةُ: گوشہ۔ کنارہ۔ مکالوں کے درمیان کا
چوک۔ ج سَاحٌ وَسُجٌّ وَمَسَاحَاتُ۔
سَاحٌ يَسُوجُ سَوَاجًا وَتَسُوجُ: فِي الظَّنِّ:
گارے میں دھس جانا۔ سَاحُ الشَّيْءِ فِي الْمَاءِ:
تہ نشین ہونا (سَاحَتْ) بِهِمُ الْأَرْضُ:
مُنِيخًا وَمُنُوخًا وَسُجًّا: نکل لینا۔
السُّوَاخُ وَالسُّوَاخُ وَالسُّوَاخِيُّ

وَالسُّوَاخِيَّةُ: بہت کچھڑا۔ کہا جاتا ہے "مُطَوَّنًا
حَقِي صَوَاتِ الْأَرْضِ سُوَاخِيٌّ" ہمارے اوپر
بارش ہوئی۔ یہاں تک کہ زمین کچھڑ ہو گئی۔ و
"بَطْلِحَاءُ سُوَاخِيٌّ" سنگریزہ والی زمین جس میں
بہر دھس جائے۔
سَادِيَسُوْدٌ سِيَادَةٌ وَسُوْدَاٌ وَسُوْدَاٌ
وَسِيْدُوْدَةٌ وَسُوْدَاٌ: شریف ہونا۔ بزرگ ہونا
قُوْمَةٌ: سردار ہونا۔ ہ: بزرگی و
شرافت کے فخر کرنے پر غالب ہونا۔ صفت
(ساید) ج سَادَةٌ: ج سَادَاتُ الزُّجْلُ:
کسی سے راز کی بات کہنا۔ (سُوَادًا)
الزُّجْلُ: زرد کالی جسے ہونے پانی کہتے۔
سُوْدٌ يَسُوْدُ سُوْدًا وَأَسُوْدٌ إِسُوْدَاً
وَأَسُوْدًا سُوْدًا إِذَا كَلَاهُ: ہ: سردار بنانا۔
سُوْدٌ دَلِيْرٌ هُوَ: ہ: سردار بنانا۔
السُّنَى: کلا کرنا۔ الزُّجْلُ:
سرداروں کو قتل کرنا۔
سَوَادَةٌ: مکر و فریب کرنا۔ رات کے اندھیرے
میں ملنا۔ سرداری یا سیاہی میں مقابلہ کرنا۔ راز کی
بات کہنا۔ سَوَادٌ الْأَسَدُ: شیر کو ہانا۔ ہلکا۔
أَسُوْدَتُ إِسُوْدًا وَأَسَادَتُ إِسَادَةً
الْمَرْأَةُ: کلا بیٹھنا۔ سردار بننا۔
تَسُوْدٌ: نکاح کرنا۔ سردار ہونا۔ کلا ہونا۔
إِسْتِئَاءُ الْقَوْمِ: سردار قوم کو قتل کرنا یا قید کرنا
فِي بَيْتِي فَلَانٍ: سردار قوم کی لڑکی سے
منگنی کرنا۔
السُّوْدُ: سیاہ پتھروں والا ہوار میدان۔ ج
أَسْوَادٌ: ایک قطعہ کو (سُوْدَةٌ) کہتے ہیں۔
السُّوْدَةُ: کھجور کے درختوں والی زمین۔
السُّوْدُ: سرداری۔ ایک قسم کی عبادت۔
السُّوَادُ: سیاہی۔ وجود۔ تم کہتے ہو "وَأَيْتُ
سُوَادًا" میں نے وجود کو دیکھا۔ ج أَسْوَدَةٌ: ج
أَسَاوِدُ: بہت مال۔ بہت تعداد۔ سُوَادُ الْبَلَدَةِ:
شہر کے ارد گرد کی آبادیاں۔ سُوَادُ اللَّيْلِ: پوری
رات۔ سُوَادُ النَّاسِ: عام لوگ۔ سُوَادُ
العَسْكَرِ: السُّلْحُ وَالسَّانُ فُوج۔ سُوَادُ العَيْنِ:
آگہ کا سیاہ حصہ۔ پتلی۔ سُوَادُ القَلْبِ: دل کا سیاہ
نقطہ۔

پکراوے۔ شراب پینے کے بعد اپنے ہم نشین پر حملہ کرنے والا۔ کَلْبُ سَوَّارٍ: لوگوں پر حملہ کرنے والا۔ کَلْبُ السَّوَّارِ: شیر۔
 الْأَسْوَارُ وَالْإِسْوَارُ: گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھنے والا۔ تیرانداز۔ عِنْدَ الْفُرْسِ: فوجی افسر۔ جَسَارٌ وَأَسْوَارَةٌ: الشَّوَّارِیُّ: بلندی۔
 الْمَسْوَرُ وَالْمَسْوَرَةُ: چڑے کا کلیہ۔ جَسَّارٌ: مَسَّارٌ۔
 الْمَسْوَرُ: کلائی میں لٹکن پینے کی جگہ۔ مَلِكٌ مُسَوَّرٌ: طاقتور بادشاہ۔
 السَّوْرُ نَجَانٌ وَالتَّسْوِيرُ نَجَانٌ: ایک دوا کا نام۔ جنگلی سنگھاڑا۔
 سَاسٌ يَسْوُسُ بِنِيسَانَهُ: الذَّوَابُ: دیکھ بھال رکھنا۔ سَدَهَانَا: الْقَوْمُ: امور کی تدبیر و انتظام کرنا۔ الْأَمْرُ: انتظام کرنا۔ صفت (سائیس) ج سَاسَةٌ وَسَوَّاسٌ اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مُّجَوَّرٌ قَدَّسَاسٌ وَبَيْتٌ عَلَيَّهِ" فلاں تجربہ کار ہے جو ادب آموز ہے یا موبہ ہے۔
 سَاسٌ يَسَاسُ وَسَوَّاسٌ يَسْوُسُ وَبَيْتٌ يَسَاسُ سَوَّاسًا وَتَسْوُسُ: الطَّعَامُ: کھن پڑنا۔ الشَّاةُ: بکری کا بھت جوں والی ہوتا۔
 سَوَّاسٌ: الطَّعَامُ: کھن پڑنا۔ لَهْ أَمْرًا: مزین کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَوَّاسٌ فَلَانٌ أَمْرُ الْقَوْمِ" فلاں قوم کے امور کا مالک بنایا گیا۔
 أَسَاسٌ: الطَّعَامُ: کھن پڑنا۔ أَسَاسَةُ النَّاسِ: رکھیں و سردار بنالینا۔ أَسَاسَتِ الشَّاةُ: بہت جوں والی ہوتا۔ صفت (مبیسس) السَّاسُ: تنظیم۔ و انت کی جڑ جس کو کیروں نے کھایا ہوا (اس کی اصل سائیس ہے شل ہارو ہائیرو ضافی صافی کے)۔
 السَّوْسُ: اون یا کڑی کا کیرا۔ کھن۔ واحد (سوستہ) کسی چیز کا کھانے والا۔ السَّوْسُ: اصل طبیعت۔ تم کہتے ہو "الْفَصَاحَةُ مِنَ سَوَّاسِهِ" فصاحت اس کی طبیعت چیز ہے۔ طبیعی کاورخت۔
 السَّوْسُ: ایک بیماری جو جانوروں کی سرین پر ہوتی ہے۔

وَالْمَسْوَدَّةُ مِنَ الْأَيَّامِ: سخت زمانہ۔ مَصَابٌ كَعَدَنٍ۔
 السَّوْدُقُ وَالسَّوْدُقُ وَالسَّوْدُقُ وَالسَّوْدُقُ وَالسَّوْدُقُ وَالسَّوْدُقُ: شکر یا شاہین۔
 سَاوَرُ سَوَّارٍ سَوَّارٌ: الحَايِظُ: دیوار پر چڑھنا۔ پھاندنا (سَوَّارٌ وَ سَوَّارٌ) الْبَيْتِ: کودنا۔ الشَّوَابُ فِي زَابِهِ: شراب کا سرکو پھرانہ۔
 سَوَّارٌ: شَرِيهَانَةٌ: شریہا پانا۔ الْمَرْوَةُ: لٹکن پھنانا۔ الحَايِظُ: دیوار پر چڑھنا۔
 سَاوَرَةُ سَوَّارًا وَ مَسَاوَرَةٌ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ حملہ کرنا۔ تم کہتے ہو "سَاوَرَتِ الْحَيَّةُ الزَّوَابِجَ" سانپ نے سو ر پر حملہ کیا۔ ه السَّوَابُ: سرکو پھرانہ۔
 تَسَوَّرٌ: لٹکن پھنانا۔ الحَايِظُ وَ عَلَيَّهِ: دیوار پر چڑھنا۔ پھاندنا۔
 السَّوْرُ: شَرِيهَانَةٌ: سَوَّارٌ وَ سَوَّارٌ: السَّوْرُ: عمدہ اونٹ۔ کہا جاتا ہے "عِنْدَهُ سَوَّارٌ مِنَ الْإِبِلِ" اس کے پاس عمدہ اونٹ ہیں۔
 سَوْرِيَةٌ وَ سَوْرِيَةٌ: مَلِكٌ شَامٌ۔
 السَّوْرَةُ: سَاوَرٌ كَالْمَرْوَةِ۔
 سَوْرَةٌ: الْخَمْرُ وَ (سَوَّارٌ) شَرَابٌ كِي تَمْرِي سَوْرَةُ السُّلْطَانِ: بادشاہ کا دبدبہ۔ سَوْرَةٌ: الْمَخْجِدُ: بزرگی کا اثر۔ سَوْرَةُ الْبَزْدِ: سردی کی تیزی۔
 السَّوْرَةُ: مرتبہ۔ کہا جاتا ہے "لَهُ عِنْدَكَ سَوْرَةٌ" تیرے نزدیک اس کا مرتبہ ہے "وَلَهُ سَوْرَةٌ فِي الْمَخْجِدِ" اس کے لیے بزرگی کا مرتبہ ہے۔ فضیلت۔ کہا جاتا ہے "لَهُ عَلَيْنِكَ سَوْرَةٌ" اسے تمہارے اوپر فضیلت ہے۔ شرف۔ علامت۔ لیس و خوبصورت عمارت۔ مِنْ الْكِتَابِ: قرآن پاک کی سورت اور اس کو السَّوْرَةُ بھی کہا جاتا ہے۔ ج سَوَّرُو سَوَّرُوا وَ سَوَّرَاتِ: السَّوَّارُ وَالسَّوَّارُ وَالْأَسْوَارُ: لٹکن۔ ج سَوَّرُ وَأَسْوَرَهُ وَأَسْوَرَةٌ وَأَسْوَارٌ وَ أَسْوَارَةٌ وَ سَوَّارٌ: السَّوَّارَةُ: ہمیشہ کی ایک پرانی قوم جو بصرہ میں آکر رہی تھی۔
 السَّوَّارُ: وہ شخص جس کے سرکو شراب جلد

السَّوَادُ: رازدارانہ گفتگو۔ دائیوں کی ایک بیماری۔ رَمَكٌ كِي زَرَوِي۔
 السَّوَادُ: آواز۔
 السَّوَادِيَّةُ وَ السَّوَادِيَّةُ: بھمکا۔
 السَّوْدَانُ: سَوَّانٌ كَابَشَدَهْ: واحد (سودانی) سیاہ رنگ کے لوگ۔
 السَّيْدُ: بھیریا۔ شِيْرَجٌ سَيْدَانٌ: السَّيْدَةُ: مادہ بھیریا۔
 السَّيْدَانَةُ: بھیریا۔
 السَّيْدُ: سِرْدَارٌ: تَخْفِيْفًا (سید) بھی ایک لغت ہے۔ ج أَسْيَادٌ وَ سَادَةٌ وَ سَيْدَانٌ۔
 عِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد اور ان کی نسل ہے جو لوگ ہوں۔
 السَّيْدَانُ: حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔
 السَّيْدَانُ: فَانٌ سَادَةٌ: ج سَادَاتٌ۔
 أَسْوَدٌ: ج سَوَّدٌ وَ سَوْدَانٌ: مَوْنٌ سَوْدَاءٌ: کالا۔ مِنْ الْعَيْنِ: آنکھ کی پگی۔ مِنْ الْقَوْمِ: بزرگ تر۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَسْوَدٌ مِنْ فَلَانٍ" وہ فلاں سے بزرگ تر ہے۔ تَفْسِيرٌ أَسْوَدٌ وَ أَسْيَدٌ: الْأَسْوَدَانُ: گھوڑ اور پانی یا سانپ اور چھو۔
 وَالْأَسْوَدُ: مَوْنٌ أَسْوَدَةٌ: ج أَسْوَادَةٌ: بڑا کالا سانپ جس کو محض بھی کہتے ہیں۔
 السَّهْمُ الْأَسْوَدُ: مبارک تیر جس سے برکت حاصل کی جائے۔ گویا بہت ہاتھوں کے پڑنے کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَسْوَدٌ الْكَيْدُ" فلاں دشمن ہے۔ وَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ "هُمُ سَوْدَاؤُ الْكَيْبَادِ"
 السَّوْدَاءُ وَ السَّوْدَاءُ: عِنْدَ الْأَطْيَابِ: ایک خط کا نام۔ مَالِجُوْلِيَا كِي بِيَارِي: الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: کلوئی۔ سَوْدَاءُ الْقَلْبِ وَ سَوْدَاءُ زَهْ: دل کا سیاہ نقطہ۔
 السَّوْدُودُ وَ السَّوْدُودُ: مرتبہ بلند۔ سرداری۔
 مَاءٌ (مَسْوَدَةٌ) الْمَسْوُودُ: مرض مَالِجُوْلِيَا کا بیمار۔
 الْمَسْوُودَةُ وَ السَّوَادُ: عِنْدَ الْكُتَّابِ: پہلی تحریر جس کو صاف نہ کیا گیا ہو۔ اس کے مقابلہ میں صاف شدہ کو مَبِيضَةٌ کہتے ہیں۔
 عِنْدَ الطَّبَّاعِيْنَ: پروف (المَسْوُودَةُ

السُّوَسُ: گھوڑوں کے گروں کی ایک بیماری جو گردن کو خشک کر دیتی ہے۔
 السُّوَسَةُ: مہ۔ پائیکس۔ کلی تدبیر و انتظام۔
 السُّوَسَةُ السُّوَسَةُ: شہری انتظام۔ عدل و استقامت کے ساتھ اس طرح پر انتظام کرنا کہ سب کی معاشی حالت اچھی ہو۔
 السُّوَسَنُ وَالسُّوَسَنُ وَالسُّوَسَانُ: ایک خوشبودار بوٹی۔ جنگلی و بستانوں دو قسم کی ہوتی ہے۔
 واحد (سُّوَسَنَةٌ) سُّوَسَانُ: ساظہ سُّوَسُوْظُ سُّوَسُوْظَا: کوڑے مارنا۔
 السُّوَسُ: مخلوط کرنا۔ الحزب: لڑائی برپا کرنا۔ الأمر: دہ و بلا کر دینا۔
 السُّوَسُوْظَا: نفسہ: جی کا تھلنا۔
 السُّوَسُ: الحزب: گدنا کی شاخیں لگانا۔
 الأمر: مخلوط کرنا۔ گڈمڈ کرنا۔
 الحزب: لڑائی برپا کرنا۔
 السُّوَسُوْظَا: الأمر: مخلوط ہونا۔ گڈمڈ ہونا۔
 السُّوَسُوْظَا: کوڑا۔ چابک۔ ج۔ اَسْوَاظُ و سِیَاظُ السُّوَسُوْظَا: سختی۔ پالی جمع ہونے کی جگہ۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا بِنَاعَتَانِ سُّوَسُوْظَا وَاحِدًا" وہ دونوں ایک طرز پر کام کرتے ہیں۔ السُّوَسِيَاظُ: گدنا کی شاخیں۔
 السُّوَسُوْظَا: سپاہی جس کے پاس کوڑا ہو۔
 السُّوَسُوْظَا: گڈمڈ۔ ملاح۔
 السُّوَسُوْظَا: بغیر چابک کے نہ چلنے والا گھوڑا۔
 السُّوَسُوْظَا: کلزی وغیرہ کی کوئی چیز جس سے کسی چیز کو کسی چیز میں مخلوط کیا جائے۔
 السُّوَسِيَاظُ: پانی جو حوض کے دہ میں باقی رہ جائے۔
 السُّوَسُوْظَا: دیکھئے سِیَاظُ۔
 سَاعٌ يَسُوْظُ سُوْعًا: ضائع ہونا۔
 سَاعَتُ الْاِبْلِ: بغیر چرواہے کے آزادی سے چرنا۔
 سَاوَعَةٌ مُسَاوَعَةٌ وَ سُوَاعًا: گھنٹہ بھر کے لیے معادلہ کرنا۔ الرَّجُلُ: ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔
 اَسَاعٌ اِسَاعَةٌ: الشُّيْ: بیکار چھوڑنا۔ ضائع کرنا۔

اَسْوَعٌ اِسْوَاعًا: ایک گھنٹہ مؤخر ہونا۔ ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔
 السُّوَعُ وَالسُّوَاعُ: رات کا ایک حصہ۔
 السُّوَاعُ: ہلاک ہونے والا۔ ج۔ سَاعَةٌ۔
 السُّوَاعَةُ: گھنٹہ۔ وقت موجود۔ ابھی۔ کہا جاتا ہے "اِقْبِضِي حَقِي السُّوَاعَةَ" میرے حق کو ابھی ادا کرو۔ گھڑی (مولدہ) ج۔ سَاعَاتُ وَ سَاعٌ السُّوَاعَةُ الزَّمَلِيَّةُ: ریت گھڑی۔ السُّوَاعَةُ الشَّمْسِيَّةُ: دھوپ گھڑی۔
 سَاعَةٌ سُوْعَاءُ: سخت وقت۔
 السُّوَيْقَةُ: ساعت کی تفسیر یعنی تھوڑا وقت۔
 رَجُلٌ (مِسْبَعٌ وَ مِسْبَعٌ) لِلْمَالِ: مال کا بہت ضائع کرنے والا۔ تابع کے طور پر کہا جاتا ہے "هُوَ مِصْبَعٌ مِسْبَعٌ وَ مِصْبَعٌ مِسْبَعٌ"۔
 السُّوَاعُ وَالسُّوَعَاءُ: مذی یا ودی۔ حدیث میں ہے فی السُّوَعَاءِ الوُضوءُ۔ السُّوَاعُ: ایک بیت کا نام جس کی پرستش نوح ﷺ کے زمانہ میں ہوتی تھی اور بعد میں قبیلہ بدیل اس کی پرستش کرتا تھا۔
 المَسْوَعُ: جائز۔
 سَاعٌ (ن) سُوْعَاوٌ سُوَاعَاوٌ سُوْعَاثًا۔ الامر: جائز ہونا۔ صفت (سَالِعٌ)
 السُّوَابُ: خوشگوار ہونا۔ صفت (سَالِعٌ وَ سَبِيْعٌ وَ اَسْوَعٌ) کہا جاتا ہے "سَاعٌ لِي السُّوَابُ سَاعَتٌ بِهَ الْاَرْضُ" دھنسا رہا۔
 سَاعٌ يَسُوْعُ سُوْعًا وَ سَاعٌ يَسْبِعُ سَبِيْعًا۔
 السُّوَابُ: خوشگوار کرنا۔ جید لغت (اَسَاعَةٌ) ہے۔
 سَوَعٌ۔ الامر: جائز کرنا۔ لَهْ كَذَا: دینا۔ کسی کے لیے خاص کرنا۔
 اَسَاعٌ: الضَّعَامُ او السُّوَابُ: خوشگوار بنانا اور کہا جاتا ہے "اَسَاعَ لِي غَضَبِي" یعنی مجھے حملت دے۔
 اَسْوَعٌ اِسْوَاعًا: الصَّبِي اَخَاهُ: ساتھ پیدا ہونا یا ایک کے بعد دوسرا پیدا ہونا۔ صفت مذکر و مؤنث (سُوْعٌ وَ سُوْعَةٌ وَ سَبِيْعٌ) کہا جاتا ہے "هَذَا سُوْعٌ هَذَا وَ هُوَ اَخُوهُ سُوْعَةٌ وَ هِيَ اَخْتُهُ سُوْعَةٌ وَ هُوَ اَخُوهُ سَبِيْعَةٌ وَ هِيَ اَخْتُهُ وَ سَبِيْعَةٌ" یہ سب ان موقعوں پر بولتے ہیں جبکہ دونوں بچے ساتھ پیدا ہوئے ہوں یا یکے بعد دیگرے اور ان کے درمیان

کوئی تیسرا نہ ہو۔
 اِسْتَسَاعَ السُّوَابُ: خوشگوار پانا۔
 السَّبِيْعُ مِنَ السُّوَابِ: خوشگوار شراب۔
 السُّوَاعُ: حلق کے پھندے کو دور کرنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے "الْمَاءُ سُوَاعٌ الْفَصْحُ" پانی پھندے کو دور کرنے والا ہے۔
 سَاَفٌ يَسُوْفٌ وَ يَسَاَفٌ سُوْفًا: الضَّالُّ: ہلاک ہونا۔ جانوروں میں بیماری واقع ہونا۔
 سَاَفٌ يَسُوْفٌ سُوْفًا: عَلَيْهِ: صبر کرنا۔
 وَاِسْتَاَفَ اِسْتِاَفًا: الشُّيْ: سو گھنٹا۔
 سُوْفَةٌ: ٹالنا۔ بار بار کہنا کہ عنقریب کروں گا۔
 الامر: پورا اختیار دینا۔
 سَاَوَفَةٌ مُسَاَوَفَةٌ: سو گھنٹا۔ راز کی بات کرنا۔ ٹالنا۔
 اَسَاَفٌ اِسَاَفَةٌ: مال ہلاک ہونا۔ اولاد کا مرنا۔ صفت (مُسِيْفٌ) اور اولاد کو (مَسَاَفٌ) کہتے ہیں۔ اَسَاَفَهُ اللهُ: ہلاک کرنا۔
 سُوْفٌ: جی برفتح: حریف استقبال ہے "س" سے اس کا زمانہ طویل ہوتا ہے اور یہ فعل سے جدا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے "فَلَا تَنْ يَفْتَاثُ السُّوْفُ" فلاں آرزوؤں میں زندگی بسر کرتا ہے۔
 السَّايِقَةُ: باریک ریت اور ریتلی اور سخت زمین کے درمیان والی زمین۔
 السُّوَاَفُ وَالسُّوَاَفُ: جانوروں کی بیماری و ہلاکت۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَ فِي الْمَالِ سُوَاَفٌ" مال میں ہلاکت واقع ہوئی اور اسی سے مثل ہے "اَسَاَفٌ حَتَّى مَا يَسْبِيحِي السُّوَاَفُ" اس شخص کے حق میں بولا کرتے ہیں جو تختیوں کے برداشت کرنے کا عادی ہو جائے۔
 السَّافُ وَالسَّافَةُ: مٹی یا گچی اینٹوں کا ردہ۔ ج۔ اَسْفُ وَ سَافَاتُ: کہا جاتا ہے "بَنِي سَافِيْنٍ او فَلَائِتُ سَافَاتُ" اس نے دو یا تین ردے رکھے۔ السَّافُ: ایک شکاری پرندہ۔
 السَّافَةُ وَالسُّوْفَةُ: ریتلی اور سخت زمین کے درمیان کی زمین۔ ج۔ سُوْفٌ وَ سُوْفٌ۔
 الْمَسَافَةُ وَالْمَسَافُ: ج۔ مَسَاوِفٌ وَ (السِّيْفَةُ) دوری۔ فاصلہ۔ تم کہتے ہو "مَم"

جس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ الخَيْلُ: گھوڑوں کو چرنے کے لئے چھوڑنا۔ عَلَيْهِمْ: لوٹ ڈال کر فساد پھیلانا۔ الْفَرَسُ: گھوڑے پر داغ لگانا۔

سَوَاءٌ سَوَاءًا وَمُسَوَّمَةٌ بِالسَّلْفَةِ: سامان کا ہموار کرنا۔

تَسَوَّمُ السَّلْفَةَ: فروخت کرنے میں جھگڑنا۔ فِي السَّلْفَةِ: سامان کا ہموار کرنا۔

أَسَامٌ إِسَامَةٌ: الماشية: جانور کو چراگاہ کی طرف روانہ کرنا۔ إِلَيْهِ يَبْصُرُهُ: نظر ڈالنا۔

إِسْتَامَ: فَلَانًا السَّلْفَةَ: قیمت دریافت کرنا۔ يَبْهًا: زیادہ قیمت پر فروخت کرنا۔

تَسَوَّمُ: علامت لگانا۔

التَّامُ: موت۔ نزل۔ واحد (سَامَةٌ) التَّامَةُ: موت۔ چاندی یا سونے کا کھڑا۔ کونکوں کے اوپر کا کھڑا۔ ج. صِيمٌ۔

السَّيْمَةُ وَالسُّوْمَةُ وَالسَّيْمَاءُ وَالسَّيْمِيُّ: علامت ایٹ۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ سُوْمَةُ الصَّلَاحِ" و سَيْمَةٌ "اس کے اندر بھلائی کی علامت ہے۔

السَّيْمِيَاءُ وَالسَّيْمِيَاءُ: علامت۔ خوب صورتی۔ السَّيْمِيَاءُ: خود سری سے چلنے والا۔ چرواہا۔

السَّيْمِيَاءُ وَالسَّوَامُ: چرنے والا اونٹ۔ جانور۔ ج. سَوَائِمٌ۔

السَّوَامُ: ہم۔ ایک پرندہ۔ السَّوَامُ: جلدی گزرتا۔

السَّوَامَةُ: چوکھٹ کے نیچے والی لکڑی۔ السَّوَامُ: خوب صورت بناوٹ والا۔ علامت لگانا۔

السَّوَامُ: الخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ: چرائے ہوئے یا چھوڑے ہوئے گھوڑے۔

سَوَى يَسْوِي سَوَى: الزَّجْلُ: درست کام والا ہونا۔

سَوَى: الشَّقِي: درست کرنا۔ سیدھا کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَوَيْتُ الْمَعْوَجَ فَمَا اسْتَوَى" میں نے ٹیڑھے کو درست کیا وہ درست نہیں ہوا۔

ہموار کرنا اور مطلقاً بنانے اور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے الْإِنْبَاءُ يَسْوِي الْإِنْبَاءَ۔

وَسَوَى يَسْوِيهَا وَسَوَاهُ وَسَوَاهُ بِهِ: برابر کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَوَيْتُ عَلَيْهِ الْأَرْضَ" یعنی

وہ ہلاک ہو گیا اور دفن کر دیا گیا۔ وَسَوَى الشَّقِي: برابر کرنا۔ سَوَى الرَّجُلُ فَرْقَهُ: ہم مثل ہونا۔

تَدْرُؤِيَّتٌ مِثْلُ بَرَابَرٍ: علم و شجاعت میں ایک جیسا ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا لَا يَسْوِي ذُو هِمَا" یہ ایک درہم کے برابر نہیں۔

أَسْوَى اسْوَاءً: رسوا ہونا۔ ذلیل ہونا۔ درست امور والا ہونا۔ الشَّقِي: ہموار کرنا۔

أَسْوَاهُ: برابر کرنا۔ تَسَوَّى: ہموار ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَسَوَّىتُ بِهِ الْأَرْضُ" یعنی وہ ہلاک ہو گیا اور دفن کر دیا گیا۔

تَسَوَّىتُ: لِي كَذَا: ہم مثل ہونا۔ برابر ہونا۔ ایک جیسا ہونا۔

اسْتَوَى: الشَّقِي: معتدل و برابر ہونا۔ سیدھا ہونا۔ کہا جاتا ہے "سَوَيْتُ الشَّقِيَّ فَمَا اسْتَوَى" میں نے چیز کو سیدھا کیا وہ سیدھی نہیں ہوئی۔

الزَّجْلُ: درست امور والا ہونا۔ پوری جوانی کو پہنچنا۔ عَلَيْهِ: غالب ہونا۔

عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ: جم کے پیٹھنا۔ "اسْتَوَى عَلَيَّ سَيْرُ الْمَلِكِ" کہنا یہ ہے کال قبضہ و تصرف سے۔

إِلَى الشَّقِي: قصد و ارادہ کرنا۔ اسْتَوَىتُ بِهِ الْأَرْضُ: ہلاک و دفن ہونا۔ اسْتَوَى الطَّعَامُ: پک کر تیار ہونا۔

السَّوَى: ارادہ۔ السَّوَاءُ: برابر۔ درمیان۔ بچ۔ کہا جاتا ہے "صَرَبَ سَوَاءٌ فَ" اس نے اس کے وسط میں مارا۔ و "لَقَبْتُهُ لِي سَوَاءِ النَّهَارِ" میں نے اس سے دوپہر میں ملاقات کی اور سواہ غیر کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے "جَاءَ وَاسْوَاءَ زَيْدًا" زید کے علاوہ سب آنے اور مستوی کے معنی میں بھی جیسے "مَكَانٌ سَوَاءٌ وَقَوْبٌ سَوَاءٌ" یعنی لہائی چوڑائی برابر والی جگہ یا کپڑا۔ و "سَوَاءُ السَّجْبَلِ" سیدھا راستہ۔ و "هَذَا ذَرْهَمٌ سَوَاءٌ يَهْ يُوْرَا دَرْهَمٍ يَهْ"۔

سَوَاءُ الْجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔ السَّوَاءُ: مثل مانند۔ "هَمَّا فِي هَذَا الْأَمْرِ سَوَاءٌ" وہ دونوں اس معاملہ میں برابر ہیں۔ و "قَسَمْتُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ" میں نے ان دونوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیا۔ لَوْعِيْلُ: اور عتاجوں کی سواری۔ ج. سَوَائِيًا۔

السَّوِي: ہموار۔ درست۔ برابر۔ الصَّافِ: مَكَانٌ سَوِيٌّ: بچ کی جگہ۔ غَلَامٌ سَوِيٌّ: بے عیب لڑکا۔ ج. اسْوِيَاءُ۔

السَّوِيَّةُ: السَّوِيٌّ كَالْمَوْتِ: برابر۔ کہا جاتا ہے "هَمَّ عَلَى سَوِيَّةٍ لِي هَذَا الْأَمْرُ" وہ سب اس معاملہ میں برابر ہیں۔ و "قَسَمْتُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ" میں نے ان دونوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیا۔ لَوْعِيْلُ: اور عتاجوں کی سواری۔ ج. سَوَائِيًا۔

السَّوِي: بیاہن۔ برابر۔ حَلْ: کہا جاتا ہے "هَمَّا بِيَهَانٌ" وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ مَكَانٌ سَوِيٌّ: ہموار جگہ۔ اور مَوْتِ کے لیے کہا جاتا ہے "مَا هِيَ بِيَهِي لَكَ وَلَيْسَتْ الْمَوْتَةُ لَكَ بِيَهِي" و "مَالِكٌ بِاسْوَاءِ" یہ عورت یا یہ عورتیں تمہاری مثل نہیں۔ اور "لَا يَمْتَقًا" سی اور ما

سکتے ہیں۔ وَثِيْلَةُ السَّوَاءِ: تیر ہو میں یا چھو میں کی رات۔ اور کہا جاتا ہے "مَوْتٌ بِسَوَاءِ" میرا گزرا یہ شخص پر ہوا جس کا وجود عدم برابر ہے۔ اور جب سواہ کے بعد ہمزہ تسویہ ہو تو آم کا ہونا ضروری ہے چاہے دو اسم واقع ہوں یا فعل۔ جیسے "سَوَاءٌ عَلَيَّ أَرْزُقُ جَاءَ أَمَّ عَوَّوْ" میرے لیے برابر ہے چاہے زید آئے یا عمرو۔ و "سَوَاءٌ عَلَيَّ أَقْسَمْتُ أَمْ قَعَدْتُ" میرے لیے برابر ہے چاہے تم کھڑے رہو یا بیٹھو اور سواہ کے بعد دو فعل بغیر ہمزہ تسویہ کے واقع ہوں تو ثانی کا حلف آؤ کے ذریعہ ہو گا جیسے "سَوَاءٌ عَلَيَّ قَسَمْتُ أَوْ قَعَدْتُ" اور اگر دو مصدر واقع ہوں تو ثانی کا حلف آؤ اور آؤ دونوں سے جائز ہے جیسے "سَوَاءٌ عَلَيَّ قِيَامُكَ أَوْ قُعُودُكَ" و قِيَامُكَ وَ قُعُودُكَ"۔

السَّوِي وَالسَّوِيَّةُ وَالسَّوِيَّةُ: برابر۔ وسط۔ غیر مانند سواہ کے اور یہ حرف اشعار میں سے ہیں جیسے "جَاءَ وَاسْوِيَّ زَيْدًا" اور تم کہتے ہو "عِنْدِي رَجُلٌ سَوَاكُ" تمہاری جگہ میرے پاس دوسرا شخص ہے۔ و "مَوْتٌ بِسَوَاءِ سَوِيٍّ وَالْقَدَمُ" میرا گزرا یہ شخص پر ہوا جس کا وجود عدم برابر ہے اور کہا جاتا ہے "هَمَّا عَلَيَّ حَدِي سَوِيٌّ" یعنی ان کے درمیان تفاوت نہیں۔

السَّوِيَّةُ: ہموار۔ درست۔ برابر۔ الصَّافِ: مَكَانٌ سَوِيٌّ: بچ کی جگہ۔ غَلَامٌ سَوِيٌّ: بے عیب لڑکا۔ ج. اسْوِيَاءُ۔

السَّوِيَّةُ: السَّوِيٌّ كَالْمَوْتِ: برابر۔ کہا جاتا ہے "هَمَّ عَلَى سَوِيَّةٍ لِي هَذَا الْأَمْرُ" وہ سب اس معاملہ میں برابر ہیں۔ و "قَسَمْتُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ" میں نے ان دونوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیا۔ لَوْعِيْلُ: اور عتاجوں کی سواری۔ ج. سَوَائِيًا۔

السَّوِي: بیاہن۔ برابر۔ حَلْ: کہا جاتا ہے "هَمَّا بِيَهَانٌ" وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ مَكَانٌ سَوِيٌّ: ہموار جگہ۔ اور مَوْتِ کے لیے کہا جاتا ہے "مَا هِيَ بِيَهِي لَكَ وَلَيْسَتْ الْمَوْتَةُ لَكَ بِيَهِي" و "مَالِكٌ بِاسْوَاءِ" یہ عورت یا یہ عورتیں تمہاری مثل نہیں۔ اور "لَا يَمْتَقًا" سی اور ما

سے مرکب ہے اور کلمہ اشتاء ہے اور مشہور ہے
ہے کہ اس کا استعمال داؤ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور
لاصینما تخفیف کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا
ہے اور کبھی لا محذوف ہوتا ہے اور یہ ضعیف
لغت ہے۔

الاسنوی۔ اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
السَّكَّانِ اسْنَوِي هَذِهِ الْأَمْكِنَةُ"
الاستواء۔ مہ۔ درستی۔ اعتدال و خط
الاستواء) عِنْدَ الْجَهْرِ الْبَیِّنِ: وہ دائرہ جو کرۂ
زمین کے گرد قطبین سے برابر فاصلہ پر کھینچا ہوا
فرض کیا گیا ہے اور جو زمین کو دو نصف حصوں
شمال و جنوبی میں تقسیم کرتا ہے۔ اس خط پر سال بھر
دن رات برابر رہتے ہیں۔

سَيَاتٌ وَ تَسَيَاتٌ. التَّفَاقَةُ: اونٹنی کا بغیر
دوھنے کے دودھ برانا۔ کہا جاتا ہے "تَسَيَاتٌ
عَلَى الْأَمْزُورِ" میرے اوپر امور مختلف ہو گئے۔
و "تَسَيَاتٌ فَلَانٌ يَحْقِنُ" فلاں نے میرے حق کا
انکار کے بعد اقرار کر لیا۔

إِسْنِيًّا. اللَّبَنُ: دودھ کا بغیر دوھنے کے برنا۔
السَّنَى وَالسَّيْنَى: دودھ جو تھن کے اطراف
میں ہو اور بغیر دوھنے ہوئے نکلے۔ سِنْشُوءٌ۔

سَنَابٌ يَسِينُ سَبِيْنَا. الْمَاءُ: پانی کا ہر طرف کو
برنا۔ الزَّجْلُ: تیز چلنا۔ لَفِي كَلَامِهِ
بغیر غور و فکر کے بولنا۔ الذَّابَّةُ:
جانور کا آزادانہ چلنا۔

سَبِيَّةٌ. جَمُورِيْنَا: العَبِيدُ: غلام کو آزاد
کردنا۔

النَّسَابُ إِسْنِيَانَا. تِيز چلنا۔ انْتِسَابَتِ الْحَيَّةُ:
سانپ کا تیزی کے ساتھ رینگنا۔

فَلَانٌ تَحْوَنَا. لَوْثَا۔

السَّنِيبُ. مہ۔ بارش۔ داود دہش۔ مال۔ زیادتی۔
گھوڑے کے ذم کے بال۔ کشتی کا چپو۔ ج
سُيُوبٌ۔

السَّيْبُ. پانی پینے کی جگہ۔ ج سَيُوبٌ سَبِيبُ۔
(فارسی)

السَّيَابُ وَالسَّيَابُ وَالسَّيَابُ. کبھی گھوڑ
(بعضوں کے نزدیک بمعنی بلخ۔ اور بعضوں کے
زودیک بمعنی بئسر ہیں) واحد سَيَابَةٌ وَ سَيَابَةٌ۔

السَّيَابَةُ: شَرَابٌ۔

السَّيْبَانُ. حَسْبَانٌ كَا حَرْفٌ كَلِمَةٌ۔ بمعنی حوں
کے انڈے۔

السَّيَابِيَّةُ. جَمُورِيٌّ هُوَتْیَ. آزاد کیا ہوا۔ غلام۔ وہ
اونٹنی جو زمانہ جاہلیت میں نذر وغیرہ کیلئے چھوڑ دی
جاتی تھی یا وہ اونٹنی جس کے دس ماہہ بچے ہوں تو
اس پر نہ تو سوار ہوتے تھے اور نہ اس کے دودھ کو
سوائے (اس کے بچے کے اور مہمان کے کوئی پیتا
تھا اور گھاس پانی وغیرہ سے بھی اس کو نہیں روکا
جاتا تھا اور اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ مر
جاتی تھی۔) ج سَيَّبٌ وَ سَوَائِبٌ۔

سَيِّجُ الْكُزْمِ: انگور میں باز لگانا۔

السَّيَّاحُ. دِوَارٌ. بَارِزٌ بِسَيَّاحَاتٍ وَأَسْوِجَةٌ
و سَوِجٌ۔

السَّيِّحَانُ. ایک قسم کی مچھل۔

سَاخٌ يَسِيحُ سَيِّحًا وَسَيِّحَانًا. الْمَاءُ: پانی کا
سطح زمین پر برنا۔ صفت مَاءٌ سَائِحٌ وَ سَيِّحٌ کہا جاتا
ہے "هَذِهِ الْأَرْضُ تُسْفَى بِالْمَاءِ سَيِّحًا" اس
زمین کی سیرابی بٹنے ہوئے پانی سے ہے۔

الطَّلُ: پھرنا۔ ہٹ جانا۔ سَيِّحًا وَسَيِّحَانًا
و سَيَّاحَةٌ وَ سَيِّحَاتٌ: زمین میں عبادت کے لیے
پھرنا۔ شہروں میں پھرنا۔ صفت (سَائِحٌ) سَيِّحٌ وَ
سَائِحُونَ۔

سَيِّحَةٌ وَأَسَاحَةٌ. برانا۔ کہا جاتا ہے "يَسِخُ
تَسِيحًا كَثِيرًا" اس نے خوش بیانی سے گفتگو

کی۔ أَسَاحَ الْفَرَسَ بِذَنَبِهِ: گھوڑے کا دم کو لٹکانا۔
إِنْسَاحٌ. بَقْلَةٌ: پیٹ کا بڑا ہونا۔ مونا ہونا

الْفُؤْبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ بَالَةٌ:
کشاہہ دل ہونا۔ إِنْسَاحَتِ الصَّخْرَةِ: چٹان کا
پھٹ جانا۔

السَّيِّحُ. مہ۔ بٹنے والا پانی۔ دھاری دار کبیل۔ ج
سَيِّوْحٌ وَ أَسْيَاحٌ۔

النَّسَائِحُ. مسجد میں رہنے والا روزہ دار۔

السَّيَّاحُ. ملکوں میں ہمت پھرنے والا۔

الْمَسْيَاحُ. بڑائی اور چھٹی کو پھیلانے والا۔ ج

مَسَائِحٌ۔

المُسَيِّحُ. مَنَ النَّيَابُ: دھاری دار کپڑا۔

سَاخٌ يَسِيحُ سَيِّحًا وَسَيِّحَانًا. مضبوط ہونا۔

سَاخَتْ قَدْمُهُ فِي الْعَيْنِ: گارے میں پاؤں کا
دھس جانا۔

السَّيِّحُ: بڑی چھری۔ (فارسی)

السَّيِّحَاخُ. مٹی کی عمارت۔ ج سَيِّوْحٌ۔

سَارٌ (ض) سَيِّرًا وَ تَسَيِّرًا وَ مَسَيِّرًا وَ
مَسَيِّرَةٌ وَ مَسَيِّرَةٌ. جانا۔ چلنا۔ سفر کرنا۔ ہ

و بہ: چلانا۔ الدَّابَّةُ: جانور پر سوار ہونا

السَّنَّةُ: عمل کرنا۔ جیسے "وَأَوَّلُ رَاحِسِي
سَنَّةٌ مَنَ يَسِيرُهَا" کسی سنت پر پہلا راضی

ہونے والا وہ شخص ہے جو اس کے مطابق عمل
کرے۔ کہا جاتا ہے "يَسِرُ عَنكَ" یعنی غافل ہو

جاؤ اور برداشت کرو۔ اس کی تقدیر یہ ہے

"سَيُودِعُ عَنكَ الشَّكَّ وَ الْمَوَاءَ" سَارَ
الْكَلَامُ أَوِ الْمَثَلُ لِي النَّاسِ: مشہور ہونا۔

سَيِّرٌ وَأَسَارٌ. الزَّجْلُ: چلانا۔ الْجَلُّ:
عَنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ: اتار دینا۔ سَيِّرَ الْفُؤْبُ أَوْ

السَّهْمُ: دھاری دار۔ النَّاسُ سَيَّرَ الْمَثَلُ: لوگوں میں
مشہور کرنا۔ سَيَّرَ سَيِّرَةً: پہلے لوگوں کی باتیں

بیان کرنا۔ سَيَّرَ مَنَ بَلَدِهِ: جلا وطن کرنا۔ نِكَالٌ
دینا۔

سَيَّرَهُ. ساتھ چلنا۔

تَسَيَّرَ. الْجَلُّ: مچھل جانا۔

تَسَيَّرًا. بِأَمْرٍ لَمْ يَرْتَأِ تَسَيَّرَ عَنْ وَجْهِهِ
الْعَصَبُ: زائل ہونا۔

إِسْتَأْرَ إِسْتِيْرًا. زار راہ خریدنا۔

بَسِيْرَةٌ فَلَانٌ: کسی کی سیرت و عادت پر چلنا۔
سَارٌ. الْعَشِيُّ: تمام چیز۔ سَارٌ مِثْلُ سَارٌ مِثْلُ سَارٌ

ہے۔

السَّيْرُ. تَمَرٌ. ج سَيُّوْرٌ وَ سَيُّوْرَةٌ وَ أَسْيَارٌ۔

السَّيْرَةُ. سار کا اسم۔ عادت۔ طریقہ۔ طرز

زندگی۔ ہیئت۔ سَيْرَةُ الزَّجْلِ: سواری عمری۔
لوگوں کے ساتھ سلوک کی کیفیت۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ حَسَنُ السَّيْرَةِ" وہ اچھی عادت والا ہے۔

اور اسی سے عرب کا قول ہے "مَنْ طَابَتْ
سَيْرَتُهُ حَمِدَتْ سَيْرَتُهُ" جس کا باطن اچھا

ہوتا ہے اس کی عادت اچھی ہوتی ہے۔ ج سَيْرٌ۔

السَّيْرَاءُ. دھاری دار چادریں یا کسی چادریں

جن میں ریتم ملا ہوا ہو۔ خالص سونا۔ ایک قسم کی

نباتات۔ گھنٹی سے چٹا ہوا چھلکا۔ دل کا پردہ۔
گھوڑی کشتی۔

السائیر: فا۔ سائر الشئ: چیز کا تیر۔ المثل
السائیر:

السائیر والشیرة والشیرة: بہت چلنے والا۔
السائیرة: السائیر کا مؤنث۔ قافلہ۔ آفتاب

کے گرد گھومنے والا ستارہ۔ جیسے زحل، مشتری،
مرخ، زمین، زہرہ، عطارد وغیرہ۔ ج سائیرات۔
السائیرة: موٹر کار۔

السائیر: مہ۔ سیر کا سبغ۔
المسور: مہ۔ قیاس کے لحاظ سے مسیر

ہے۔ مگر مصدر سے التباس کی وجہ سے بدل دیا
گیا۔ طریق مسور: آمدورفت والا راستہ۔

المسیرة: مہ۔ مسافت۔ کہا جاتا ہے "بینہما
مسیرة یوم" ان دونوں کے درمیان ایک دن

کی مسافت ہے۔
المسیر: من الثیاب: دھاری دار کپڑا۔

المسیر: تل کا تیل۔
مسیر: مسیر شمس: شمس۔ الطغام: گھن پڑنا۔

مسیر: شرم والا۔ عار دلانا۔
المسیر: چینی کا پودہ۔

المسیر: ریزہ کی ہڈی کے جوڑی جگہ۔
المسیر: الظہر من الدواب: جانوروں کی پیٹھ

پر سوار ہونے کی جگہ۔
المسیر: سیرتہ و سیرتہ: گھبان ہونا۔

دارودہ ہونا۔
ساع تسبیح سبغاً و سبغاً: الشئ: ضائع

ہوتا۔ و الساع و الساع: الماء: پانی کا
ادھر ادھر بہنا۔ الساع الساع: جمی ہوئی چیز

کا پھلنا۔
ساع: الحائظ بالظن: دیوار کا مٹی سے لیپنا

الشئ: تیل وغیرہ ملنا۔
ساع: الشئ: ضائع کرنا۔

الساع: مہ۔ ساع زمین پر بننے والا پانی۔
الساع: گارا۔ کھل۔

السبغاء و السبغاء: رات کا حصہ۔ کہا جاتا ہے
"حزب جث بعد سبغاء من اللیل" رات کا ایک

حصہ گزر جانے کے بعد میں نکلا۔
السبغاء: کرنی۔ کھل کرنے کا اوزار۔ ناقة

(مصنوع) بچہ کو چھوڑ کر چرنے کے لیے جانے
والی اونٹنی۔

ساع تسبیح سبغاً: الشراب: خوشگوار بنانا۔
السبغ: من الشراب: خوشگوار شراب۔

ساعت تسبیح سبغاً: الید: ناخن کے
ارگرد پھٹنا۔

ساعة تسبیح سبغاً: تلوار سے مارنا۔
تسبیح: تلوار سے مارنا۔

سائیر و تسائیر و استائیر: استیفاء: باہم
تلوار بازی کرنا۔ و استیفاء القوم: تلوار سے

مارا جانا۔
التیفاء: تلوار۔ ج استیفاء و سبغ

و استیفاء و تسبیح (و السائیر) تلوار سے مسخ۔
سبغ الحبار: تین ستاروں کے نام۔ سبغ

الریاح: ایک قسم کی نباتات۔
السبغ و السبغ: ایک قسم کی مچھلی جس کی

لبی سی چوڑی تیزہ کی مانند ہوتی ہے۔ السبغ:
سندھ کا کنارہ یا بحرچہر کا کنارہ۔ ج استیفاء وہ چیز جو

گھوڑے کے ذمے کی چیز میں چپکی ہوئی ہوتی ہے۔
السبغ: من الرجال: لہا و پتا مرد۔ مؤنث

سبغ: اور بقول بعض عورتوں ہی کے لیے
مخصوص ہے۔

السبغ: شمیر زن۔ ج سبغ: رجل
سبغ: خون گرانے والا مرد۔ سبغ الأمیر:

جلار۔
الاستیفاء: پارٹیاں۔

المسایف: خشک سالی۔ قحط۔ کہا جاتا ہے
"أصابنا ثم المسایف" ان کو قحط سالی

لاحق ہوئی۔
المسبغ: تلوار سے مسخ۔ ولیر فقیر۔

المسبغ: من الذراہم: درہم جس کے

کنارے نقش سے خالی ہوں۔ من
الیزود: جاوہرین، جن پر تلوار کا نقش ہوا تلوار

کی مانند جوڑی دھاریاں ہوں۔
السبغ: من موسیقی کا ایک راگ (جدید)

سبغ (ض) سبغاً و سبغاً و سبغاً و
سبغاً: الماء: بہنا۔ سبغاً عرق الفوس:

گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کا سبغ ہونا۔
أسأل أسالة و سبغاً: الماء: جاری

کرنا۔ بہنا۔ أسأل الحامد: کچھلانا۔ أسأل غواز
التفصل: لہا کرنا۔

تسبغ القوم: ہر طرف سے آنا۔
السبغ: من غوز الحنبل: گھوڑے کی ناک

تک پیشانی کی سفیدی۔ ج سبغ
السبغ: مہ۔ بننے والا۔ کہا جاتا ہے "مساء

سبغ" بننے والا پانی۔ السبغ: سیلاب۔ ج
سبغ

السبغ: پانی بننے کی جگہ۔ سال کا سومرا۔
السبغ: پانی کا بہاؤ۔

السبغ: ایک قیمتی پتھر۔ تلوار کا وہ حصہ جو
میان میں داخل ہو۔ ج سبغ

السبغ: من المعادن و غیرہا: بننے
والی چیزیں۔

السبغ: سفید لہے کا ٹوں والا ایک پودہ کہ
جب کانٹے کو توڑتے ہیں تو دودھ کی مانند نکلتا

ہے۔ واحد۔ سبغ۔
السبغ: زور سے بننے والا۔ مؤنث سبغ


السبغ: ایک قسم کی مچھلی۔
سبغ الماء: پانی بننے کی جگہ۔ ج سبغ

سبغ و سبغ و سبغ:
المسأل: من الوجہ: ڈاڑھی نکلنے کی

ایک جانب۔
السبغ: سیمون جاوہر کی طرف

منسوب۔ مال کے ذریعہ روحانی مراتب کے درجہ
پر پہنچنے کی کوشش۔

سبغ القوم: کمان کا سرا۔ ج سبغ



الشَّامِ فَا نَحْوَسْتَ لَانِ وَاللَّـ
الشَّامَةُ وَالْمَشَامَةُ نَحْوَسْتَ
الشَّيْئَةَ وَالشَّيْئَةَ حُلُقِ طَبِيعَتِ عَادَتِ ج
شِيمِ

الْأَشَامُ اسْمُ تَفْضِيلٍ أَوْ رَاسِي سَعِيءٍ "أَشَامٌ
كُلُّ أَمْرٍ عِنْدَ بَيْنِ يَخِينِيهِ" هِرَّ آدِي كُوبِ بَحْتِي لَانِ
وَالِي جِزَاسِ كِ دُونِ جِزُؤِ كِ دَرَمِيَانِ هِي
بَعْنِي زَبَانِ بَدِ بَحْتِي لَانِ وَاللَّـ مَوْنَتِ شَوْمِي
وَالْبِدَا شَوْمِي بِلِيَا بِهَاتِهِ

الْأَشَامِ إِشَامِ كِي بَحْجِ
الْمَشُؤْمِ وَالْمَشُؤْمُ مَخُوسِ بَدِ بَحْتِ ج
مَشَانِيمِ

شَانُ (ف) شَانَا صَاحِبِ عِزْتِ وَ مَرْتَبَةِ هُونَا
كَمَا جَاتَا هِي "شَانُ شَانُكُ" اِسْنِي تَمَارِي
اِرَادِي جِيسَا اِرَادِي كِيَا "مَاشَانُ شَانُكُ" اِس
لِي تَمَارِي كَامِ كِي پَرَوَاهِ نِيسِ كِي وَ "اَشَانُ
شَانُكُ" اِرَبِي حَالَتِ رِ رِ هُونَا

اَشَانُ شَانُكُ كُسي كِي اِرَادِي جِيسَا اِرَادِي
كِرَا

الشَّانُ جِ شَوْنُ وَ شَانُ وَ شَيْنُ بِي سِي
بِي سِي اَسُورِ وَ اَحْوَالِ مَعَالِمِ حَالَتِ كَمَا جَاتَا هِي
"مِنْ شَانِيهِ كَذَا وَ اَنْ يَفْعَلَ كَذَا" اِس كِي طَبِيعَتِ
سِي هِي كِي اِيَا كِرِي وَ "مَاشَانُكُ" تَمَارَا كِيَا
حَالِ هِي هِي تَمَارَا كِيَا مَعَالِمِ هِي هِي جِ شَوْنُ وَ
شَوْنُ سِرِكِي بِي سِي كِي لِنِي كِي جِكِي كَمَا جَاتَا
هِي "بَلَّغْتِ الرَّايِحَةَ اِلَى شَوْنُ رَاسِيهِ"
خُوشِيُو اِس كِي سِرِكِي بِي سِي كِي لِنِي كِي جِكِي تَك
بَحْجِي مَنِي بِهَارِ كِي مَنِي كِي جِسْمِ مِي رِخْتِ اَكِي سِي
شَوْنُ وَ اَشَوْنُ رِگ كِي جِسْمِ سِي
اَسُو جَارِي هُونَا كَمَا جَاتَا هِي "فَاصْتُ

صَفْتِ (مَشُؤْفَةٌ) شَيْفَتْ اَصَابِيهِ نَاحِيُو كِي
اِرْدِرْدِي بَحْتَا (شَا فَا وَ شَا فَا فُلَاكَا وَ
لِقَلَانِ بِنْفِ رِكَمَا

شَيْفِ خُوفَرِدِي هُونَا ذُرَا يَا جَاتَا صَفْتِ
(مَشُؤْفُ) شَيْفَتْ الرُّجُلِ اَبَلِي بِي تَا

اِسْتَشَا فِتِ الْقَرْحَةِ خِرَابِ هُو كِرْجِي كِرْجِي لِي تَا
شَا فِ الْجُزْجِ زُخْمِ كِي خِرَابِ

الشَّافَةُ جِزْ تَمُوكِ كَا زُخْمِ كَمَا جَاتَا هِي
"اِسْتَا صَلَّ شَا فِتَهُ" اِس لِي اِسِي جِزْ كُورِيَا

وَ "بِي تَهُمْ شَا فِتَهُ" اِن كِي دَرَمِيَانِ عِدَاوَتِ هِي
وَ اِسْتَا صَلَّ اللّهُ شَا فِتَهُمْ" اِنْدِ تَعَالَى اِن كِي

عِدَاوَتِ كُو دُر كِرِي شَا فَةُ الرُّجُلِ اِلِ رِ وَا لِ
رُجُلِ شَا فَةُ مَعَزُودِي مَرْتَبَةِ مَرُ

شَامُ (ف) شَامَا الْقَوْمِ وَ غَلِيْبِهِمْ بَدِ بَحْتِي
ذَالِنَا صَفْتِ (شَالِمِ)

شَوْمُ (ك) شَامَةُ وَ شِيمِ غَلِيْبِهِمْ مَخُوسِ وَ
تَامَارِكِ هُونَا

شَامُهُمْ مَلِكِ شَامِ كِي طَرَفِ رِوَانِدِ كِرَا
شَاءَ مِ شَاءَةَ مَنِي بِهِي بَا يَسِي طَرَفِ لِي تَا

الرُّجُلِ مَلِكِ شَامِ مِي اِنَا
أَشَامُ مَلِكِ شَامِ كَا اِرَادِي كِرَا مَلِكِ شَامِ مِي اِنَا
سِرَا مَاشَا هُونِي كِرَا

تَشَاءَ مِ وَ تَشَامُ مَلِكِ شَامِ كِي جَانِبِ مَسُوبِ
هُونَا بَا يَسِي طَرَفِ هُونَا

تَشَاءَ مِ وَ اِسْتَشَامُ بِهِي بَدِ فَا لِي كِرَا بَدِ فَا لُونِ
لِي تَا

الشَّؤْمُ نَحْوَسْتَ كَالِي اَوْنَتِ
الشَّامُ وَ الشَّامُ مَلِكِ شَامِ

الشَّامِي وَ الشَّامِي وَ الشَّامِي مَلِكِ شَامِ كِي
جَانِبِ مَسُوبِ

الشَّوْنُوبِ بَارَشِ كِي بِوِجَاهِ وَ مَسُوبِ كِي
بِحِزِي هِرْجِي كِي عِدِ هِرْجِي كِي شِدْتِ دَفْعِ اَخَا رِ
حَسَنِ جِ شَا يَسِبِ كَمَا جَاتَا هِي "هُوَ حَسَنُ
شَا يَسِبِ الْوَجْهِ" اِس كِي جِرِي كَا اَخَا رِ حَسَنِ
اِحْتِمَا هِي

الشَّيْنِتِ مَهِو كِرَا مَاشَا وَ اَلَا كُورِيَا
شَا جَةُ بِشَا جَةُ اَلَا مَرُ مَعْلِكِي كِرَا

شَيْزُ (س) شَا زَا وَ شُو زَةُ وَ شُوَا رَا
الْمَكَانِ بَحْتِ اَو رِ بَلِنْدِ هُونَا تَا هَوَارِ هُونَا صَفْتِ

(شَا زَا وَ شِي زَةُ) (وَ شِي زِي هِي اَرَامِ
هُونَا ذُرَا

شَا زَا (بِشَا زَا) اَلْبَا جَارِيَةِ جِمَاعِ كِرَا
اَشَا زَةُ رِجِي هِي كِرَا هِي اَرَامِ كِرَا ذُرَا تَا

اَشَا زَةُ الرُّجُلِ عِن كَذَا بَلِنْدِ هُونَا
اِسْتَا زَا بَدِ كِرَا

الشَّازَةُ اِسْمُ مَرَّةِ حَيْثُ شَا زَةُ هُونَا كُورِيَا
الْمَشُؤْرُ وَ الْمَشُؤْرُ هِي اَرَامِ هِي قَرَارِ

خُوفَرِدِي
شَيْسِ (س) شَانَا الشَّيْ بَحْتِ هُونَا

الرُّجُلِ مَرَضِ يَا مِ سِي هِي قَرَارِ هُونَا
الْمَكَانِ بَحْتِ وَ مَعَزُودِي هُونَا مَكَانِ

(شَيْسِ وَ شَا شِ) بَحْتِ وَ مَعَزُودِي وَ اَلِي جِكِي جِ
شَيْسِ وَ شُو شِ

شَا شَا شَا شَا وَ شَا شَا الرَّاعِي اَلْعَتَمِ اَو
الْحَمِيْرِ وَ بِيهَا شَا شَا يَا شُو شُو كَمَا كِرَا كَلِنَا
التَّغْلِي وَ رِخْتِ خِرَابِي كَا بِهَا لِنَا

تَشَا شَا الْقَوْمِ مَتَرَفِ هُونَا كَمُورَا
الشَّاشَاءُ مَعِ اِي كِي قَمِ كِي رُودِي كَمُورِ كَمُورِ

كِي لِي رِخْتِ
شَيْفَتْ (س) شَا فَا الرُّجُلِ اَبَلِي بِي تَا

عورتوں کے ذکر سے آراستہ و مزین کرنا۔ کما جاتا ہے "شَبَّ قَصِيْدَةً بِفَلَانَةٍ" شعراء کی عادت تھی کہ قصائد مدحیہ کی ابتداء میں تشبیب کیا کرتے تھے۔ پھر ہر چیز کی ابتداء کو تشبیب کہنے لگے اگرچہ ایام شباب کا ذکر نہ ہو۔ شَبَّ الْكِتَابُ: کتاب شروع کرنا۔ تَشَبَّهْتُ النَّازَ: آگ روشن ہونا۔ بھڑکانا۔
 اَشَبَّ - الغلام: لڑکے کا جوان ہونا۔
 الزَّجَلُ: جوان اولاد والا ہونا _____ اللہ الغلام: لڑکے کو جوان کرنا _____ الفرض: گھوڑے کو آسانا _____ الفوز: تل کا بوڑھا ہونا۔ صفت (مَشَبَّ و مَشَبَّ و مَشَبَّ و مَشَبَّ) اَشَبَّ - لَهْ كَذَا: مقدر کیا جانا۔
 الشَّبَّ: پھلکری کے مشابہ ایک معدنی نمک جس کا رنگ سفید اور بعض کانٹیلوں ہوتا ہے۔
 جوان - شَبَّ اللَّيْلِ: ایک قسم کی نباتت۔
 الشَّبَابُ وَالشَّبِيْبَةُ: ہم - جوانی بلوغ سے تین برس تک کا زمانہ۔ ابتداء جیسے "شَبَابُ التَّهَارِ" دن کی ابتداء۔ الشَّبَابُ بمعنی تشبیب کہا جاتا ہے۔ "قَصِيْدَةٌ حَسَنَةٌ الشَّبَابِ" اچھی تشبیب والا قصیدہ اور شیبہ کی جمع شَبَابِيْبُ۔
 الشَّبُوْبُ: عمدہ بنانے والا۔ آراستہ کرنے والا۔ کما جاتا ہے "هَذَا شَبُوْبٌ لِكَذَا" یہ اس کے حسن و قوت کو بڑھانے والا ہے۔ مثلاً "الْحِمَاؤُ شَبُوْبٌ لِيُوْجِهِيْهَا" اوڑھنی اس کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہے (_____ والشَّبَابُ) جس سے آگ جلائی جائے۔
 الشَّبَاةُ: ایک قسم کی بانسری (مولدۃ) عوام اس کو منجھرتہ کہتے ہیں۔
 الشَّبَابُ وَالشَّبَّ: جوان۔ ج۔ شَبَابُ وَشَبَابٌ وَشَبِيْبَةٌ مَوْنَتٌ شَابَةٌ وَشَبَّةٌ۔ ج۔ شَابَاتٌ وَشَبَاتٌ وَشَوَابٌ وَشَبَابِيْبُ۔
 المَشِيْبُ: شیر۔
 المَشَبُوْبُ: مِنَ الرَّجَالِ: تیز خاطر مرد۔
 المَشَبُوْبَتَانِ: زہرہ و مشتری۔ نَاؤُ مَشَبُوْبَةٌ: بھڑکالی ہوئی آگ (نَاؤُ شَابَةٌ نہیں بولتے۔)
 الشَّبِيْبُ: سوئے کاساگ۔
 شَبَّ (س) شَبَّ وَ تَشَبَّتْ - بِكَذَا: چھٹنا۔

عورتوں کے ذکر سے آراستہ و مزین کرنا۔ کما جاتا ہے "شَبَّ قَصِيْدَةً بِفَلَانَةٍ" شعراء کی عادت تھی کہ قصائد مدحیہ کی ابتداء میں تشبیب کیا کرتے تھے۔ پھر ہر چیز کی ابتداء کو تشبیب کہنے لگے اگرچہ ایام شباب کا ذکر نہ ہو۔ شَبَّ الْكِتَابُ: کتاب شروع کرنا۔ تَشَبَّهْتُ النَّازَ: آگ روشن ہونا۔ بھڑکانا۔
 اَشَبَّ - الغلام: لڑکے کا جوان ہونا۔
 الزَّجَلُ: جوان اولاد والا ہونا _____ اللہ الغلام: لڑکے کو جوان کرنا _____ الفرض: گھوڑے کو آسانا _____ الفوز: تل کا بوڑھا ہونا۔ صفت (مَشَبَّ و مَشَبَّ و مَشَبَّ و مَشَبَّ) اَشَبَّ - لَهْ كَذَا: مقدر کیا جانا۔
 الشَّبَّ: پھلکری کے مشابہ ایک معدنی نمک جس کا رنگ سفید اور بعض کانٹیلوں ہوتا ہے۔
 جوان - شَبَّ اللَّيْلِ: ایک قسم کی نباتت۔
 الشَّبَابُ وَالشَّبِيْبَةُ: ہم - جوانی بلوغ سے تین برس تک کا زمانہ۔ ابتداء جیسے "شَبَابُ التَّهَارِ" دن کی ابتداء۔ الشَّبَابُ بمعنی تشبیب کہا جاتا ہے۔ "قَصِيْدَةٌ حَسَنَةٌ الشَّبَابِ" اچھی تشبیب والا قصیدہ اور شیبہ کی جمع شَبَابِيْبُ۔
 الشَّبُوْبُ: عمدہ بنانے والا۔ آراستہ کرنے والا۔ کما جاتا ہے "هَذَا شَبُوْبٌ لِكَذَا" یہ اس کے حسن و قوت کو بڑھانے والا ہے۔ مثلاً "الْحِمَاؤُ شَبُوْبٌ لِيُوْجِهِيْهَا" اوڑھنی اس کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہے (_____ والشَّبَابُ) جس سے آگ جلائی جائے۔
 الشَّبَاةُ: ایک قسم کی بانسری (مولدۃ) عوام اس کو منجھرتہ کہتے ہیں۔
 الشَّبَابُ وَالشَّبَّ: جوان۔ ج۔ شَبَابُ وَشَبَابٌ وَشَبِيْبَةٌ مَوْنَتٌ شَابَةٌ وَشَبَّةٌ۔ ج۔ شَابَاتٌ وَشَبَاتٌ وَشَوَابٌ وَشَبَابِيْبُ۔
 المَشِيْبُ: شیر۔
 المَشَبُوْبُ: مِنَ الرَّجَالِ: تیز خاطر مرد۔
 المَشَبُوْبَتَانِ: زہرہ و مشتری۔ نَاؤُ مَشَبُوْبَةٌ: بھڑکالی ہوئی آگ (نَاؤُ شَابَةٌ نہیں بولتے۔)
 الشَّبِيْبُ: سوئے کاساگ۔
 شَبَّ (س) شَبَّ وَ تَشَبَّتْ - بِكَذَا: چھٹنا۔

شَبُوْبَةٌ" اس کی آگھ کی رنگیں جاری ہو گئیں
 الشَّبُوْبُ: حاجتیں۔ کما جاتا ہے "كَلَفْنِي شَبُوْبَتِكَ" اپنی حاجتوں کی خدمات میرے سپرد کر دو۔ شَبُوْبُ الخَمْرِ: شراب کا اثر جو جسم کی رگوں میں سرایت کرے۔
 شَأَى يَشُوْ وَشَأَوًا وَاشْأَى اِشْأَاءً۔
 القَوْمُ: آگے بڑھ جانا۔ شَأَى التَّرَابِ مِنَ البُيْرِ: کنوئیں سے مٹی نکالنا۔
 شَاءَ عَلَى مَشَاءَةٍ۔ القَوْمُ: آگے بڑھنا۔ آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔
 تَشَاءَى تَشَاءِيًا۔ القَوْمُ: ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ متفرق ہونا۔ تَشَاءَى عَلَى مَا يَتِيْبُهُمَا: قاصد پر ہونا۔
 الشَّوْءُ: ہم - بدت۔ غایت۔ کما جاتا ہے "فَلَانٌ يَبْعِدُ الشَّوْءَ" یعنی فلاں عالی بہت ہے و "عَدَا شَأَوًا" وہ ایک پھر دوڑا۔ الشَّوْءُ: اونٹنی کی مہار۔ اونٹنی کی بیگتیاں۔ زنجیل۔ کنوئیں کی نکل ہوئی مٹی۔
 المِشَاءَةُ: کنوئیں کی نکل ہوئی مٹی۔ نوکری جس سے کنوئیں سے مٹی نکالی جائے۔ ج۔ المِشَائِي۔
 الشَّبَاةُ: آلے کی جھڑ۔
 شَبَّ (ض) شَبَابًا وَشَبِيْبَةً۔ الغلام: جوان ہونا۔ کہتے ہیں "مِن شَبَّ إِلَى دَبَّ"۔ جوانی سے بڑھانے تک۔
 شَبَّ (ن ض) شَبِيْبًا وَشَبَابًا وَشَبُوْبًا الفَرَسُ: اکٹھے اگلی ٹانگوں کو اٹھانا۔ شَبَابٌ ہونا۔ عرب کا مقولہ ہے "الْحَوْهَرُ يَشَبُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" جو ہر میں سے بعض بعض کے حسن کو بڑھاتا ہے۔
 شَبَّ (ن) شَبَّ وَشَبُوْبًا۔ النَّازُ: آگ روشن کرنا۔ شَبَّ النَّازُ: آگ روشن ہونا _____ الشَّقِي: بلند ہونا۔ بڑھنا۔
 شَبَّ - الشَّقِي: زیادہ کیا جانا۔ بلند کیا جانا۔ شَبَّ النَّازُ: روشن ہونا۔ شَبَّ لَهُ الشَّقِي: اللہ کی طرف سے مقدر کیا جانا۔
 شَبَّ وَ تَشَبَّتْ - جوانی اور کھیل کود کے زمانہ کا ذکر کرنا _____ الشَّاعِرُ بِالْفَتَاةِ: عورتوں کے محاسن و اوصاف کو بیان کرنا۔ شَبَّ قَصِيْدَةً:

شَبْرُ الشَّيْ: اندازہ کرنا _____ فُلَانًا: تعظیم کرنا۔

أَشْبَرُ فُلَانًا: فضیلت دینا _____ مَالًا: دینا _____ الزَّوْجُلُ: لمبے قد کے بیٹوں والا ہونا۔ پستہ قد بیٹوں والا ہونا۔

تَشَابَرُ: الفَرِيقَانِ فِي الْحَرْبِ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ یہاں تک کہ ایک بالشت کا فاصلہ رہ جائے۔

تَشَبَّرَ: بڑا ہونا۔

الشَّبِيرُ: مہ۔ مہر۔ کہا جاتا ہے "تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَبْرَهَا" اس نے اس عورت سے نکاح کیا اور اس کو مہ نہیں دیا۔ نکاح۔ مہر۔ قد و قامت۔

الشَّبِيرُ: عمر۔ بالشت۔ ج اشْبَارُ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قَصِيرُ الشَّبِيرِ" وہ قریب قریب قدم رکھنے والا ہے۔

الشَّبِيرُ: عطیہ۔ خیر۔ الشَّبِيرَةُ: قد و قامت (طویل ہوا قصیر)۔ الشَّبِيرُ: بگل۔ ج شَبَائِبُ وَ شَبِيرَاتٍ (کلمہ مہربانی ہے)۔ الشَّبَائِرُ: طبع۔ کمز (جدید)۔ شَائِرُ: المیزان۔ چور۔

فُلَانٌ (أَشْبَرُ) مِنْكَ: فلاں تم سے وسیع بالشت والا ہے۔

الأَشْبُرُ: ایک قسم کی مچھلی۔ المَشَابِيرُ: نشیبی زمین سے گزرنے والے دریا جن میں ہر دو جانب کا پانی آتا ہے۔ واحد (مَشْبَرٌ وَ مَشْبَرَةٌ)۔

شَبْرَةٌ: کلڑے کلڑے کرنا۔ شَبْرُقُ اللَّحْمِ: پارچہ پارچہ کرنا۔ شَبْرَقَتِ الدَّابَّةُ لِي مَشْبَهَا _____ جانور کا دور دور قدم رکھنا _____ التَّجَارِي

الصَّيْدَةُ: ٹوچتا اور پھاڑتا _____ القَوْبُ: بڑا بنا۔ الشَّبَارِقُ وَ الشَّبَارِقُ: کلڑے۔ کہا جاتا ہے "قَوْبُ شَبَارِقٍ وَ شَبَارِقُ وَ شَبَارِقُ وَ شَبْرُقٌ وَ شَبْرُقٌ وَ شَبْرُقٌ" کلڑے کلڑے کیا ہوا کپڑا۔

الشَّبْرُقُ: لمبی کپڑے۔ ج شَبَارِقُ۔ الشَّبْرِقَةُ: کپڑے کا ٹکڑا۔

الشَّبْرُقُ: مِنْ كِلِّ شَيْءٍ: مخنی۔

قَوْبٌ (مَشْبَرُقٌ) بَرَّأهُنَا وَ كَبَّرَا:

الشَّبْرُمُ: پستہ۔ قد۔

الشَّبْرُمَةُ: لمبی۔

الشَّبْرُقُ: آسیب زدہ۔

تَشَبَّصَ: الشَّجَرُ: آپس میں گتھا ہوا ہونا۔

الشَّبِيصُ: درخت کے کانٹوں کا آپس میں گتھا ہوا ہونا۔ مخنی۔

شَبَابُ: ترکی میند۔ مطابق فروری۔

الشَّبُوْظُ وَ الشَّبُوْظُ وَ الشَّبُوْظُ: ایک قسم کی مچھلی جس کا سر چھوٹا اور درمیانی حصہ چوڑا ہوتا ہے۔ ج شَبَائِبُط۔

شَبَعُ (س) شَبَعَا وَ شَبَعَا: مِنَ الطَّعَامِ: شَم سیر ہونا۔ تم کہتے ہو "شَبَعْتُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ زَوَيْتُ" جبکہ تم کسی معاملہ سے لول ہو جاؤ۔

شَبَعُ (ك) شَبَاعَةٌ: عَقْلُهُ: بہت عقل والا ہونا۔

شَبَعْتُ: عَنَّمُهُ: آسودگی کے قریب ہونا۔

أَشْبَعُهُ: کھلا کر شَم سیر کرنا _____ الشَّبِي: زیادہ کرنا _____ القَوْبُ مِنَ الصَّبْعِ: خوب گہرا رنگنا _____ الكَلَامُ: کلمہ کرنا۔

نَشَّعَ: بکلف شَم سیر ہونا۔ ظاہر کرنا۔ بہت کھانا۔

الشَّبِيغُ وَ الشَّبِيغُ: کھانے کی وہ مقدار جو سیر کر دے۔

الشَّبَاعَةُ: آسودگی کے بعد بچا ہوا کھانا۔

الشَّبِيغَةُ: ایک مرتبہ پیٹ بھرنے کی مقدار۔

الشَّبِيغَانُ: شَم سیر۔ مؤنث شَبِيغِي وَ شَبِيغَانَةٌ ج شَبَاعٌ وَ شَبَاعِي: کہا جاتا ہے "ہی شَبِيغِي الدِّزَاعِ" وہ پر گوشت بازو والی ہے۔ و "شَبِيغِي الحَلَلُخَالِ أَوْ السَّوَادِ الدِّزَاعِ" یعنی موٹی۔

الشَّبِيغَةُ: شَم سیر عورت۔

الشَّبِيغُ: بہت۔ کہا جاتا ہے "نَزَّوْتُ شَبِيغِي الغَزَلِ" بہت سوت والا کپڑا۔ و "رَجُلٌ شَبِيغِي العقلِ" بہت عقل والا مرد۔ و "حَبْلٌ شَبِيغٌ" بہت ٹٹوں والی رسی۔ ج شَبِيغُ۔

شَبِيْقُ (س) شَبِيْقًا: بہت سوت والا ہونا۔ صفت (شَبِيْقٌ) مؤنث شَبِيْقَةٌ۔

مِنَ اللَّحْمِ: گوشت کھانے سے بد بھسی ہونا۔

الشَّبَوِيْقُ: بیلن۔ ج شَبَوِيْقٍ (کلمہ فارسی ہے) مشہور (شَبَوِيْق) ہے فتح شین اور کاف سے چونک کا مہرب ہے۔

شَبَكْتُ (ض) شَبَكًا: الأَمْوُزُ: ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ خلط لظ ہونا۔ پیچیدہ ہونا۔ شَبَكَةُ عَنَقَةٍ: غافل کر دینا (شَبَكٌ وَ شَبَكٌ) الشَّيْ: ایک دوسرے میں ملانا۔ تم کہتے ہو "شَبَكْتُ أَصَابِعِي بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ وَ شَبَكْتُ بَيْنَ أَصَابِعِي" میں نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔

أَشَبَكَ: القَوْمُ: نزدیک نزدیک کنوئیں کھودنا۔ "أَشَبَكَ الْمَكَانُ": قریب کنوئیں والی ہونا۔

شَابَكَ: بَيْنَ الْأَصَابِعِ: انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا۔

تَشَابَكَتِ: الأَمْوُزُ: باہم مغلط ہونا۔

أَشَبَكَتِ وَ تَشَبَكَتِ: مغلط ہونا۔ بعض کا بعض میں داخل ہونا _____ الكَلَامُ أَوْ الأَمْوُزُ: پیچیدہ ہونا۔

الشَّبِيكَةُ: شکاری کا جال۔ ج شَبِكٌ وَ شَبَاكٌ وَ شَبَاكَاتُ: الشَّبِيكَةُ: بہت کنوئیں والی زمین۔ قریب قریب والے کنوئیں۔

الشَّبِيكَةُ: قرابت۔ ظَرِيقٌ (شَابِكٌ) مشتبہ و پیچیدہ راستہ۔ ج شَوَابِكُ۔

الشَّبَاكُ: جال بنانے والا۔ الشَّبَاكُ: روپیجی جس میں کلڑی یا لوبے کی چھڑیں لگی ہوئی ہوں۔ کھڑکی۔ ج شَبَابِيكٌ الشَّبَاكُ: شکاری کا جال۔ شکاری۔ گویا کہ یہ شَبَابِيكٌ کی جمع ہے۔ جیسے قاری کی جمع قراء۔

الشَّبَابِيكُ: مچھلڑے۔ الشَّبَابِيكُ: ایک قسم کا کھانا۔

شَبَلٌ (ن) شَبْلُولًا: الغَلَامُ: بڑے کا نانا و نعت میں بڑھتا اور جوان ہونا۔ صفت (شَابِلٌ) _____ فَيُفِي فُلَانٌ: پرورش پانا۔

أَشَبَلٌ: عَلِيَّةٌ: مہربانی کرنا۔ مدر کرنا۔ أَشَبَلَتِ المَرْأَةُ عَلَيَّ أَوْلَادَهَا: شوہر کی وفات کے بعد

تجوں کی دیکھ بھال کرنا اور نکاح نہ کرنا۔

الشَّبَلُ - شیر کا بچہ جب کہ شکار کرنے کے قابل ہو جائے۔ ج اشْبَال و شِبَال و اشْبَل و شُبُول - آبوا الأشْبَال - شیر۔

لَبْوَةٌ (مُشْبِلٌ) - تجوں والی شیرنی۔

مَكَانٌ (مُشْبُولٌ) - بہت شیر کے تجوں والی جگہ۔ شَبِيمٌ (ن) شَبِيمًا و شَبِيمٌ - الجَدَى - بکری کے بچے کے منہ میں تھو تھنی لگانا۔

شَبِيمٌ (س) شَبِيمًا - المَاءُ - پانی کا ٹھنڈا ہونا۔

الشَّبِيمُ - سروی۔

الشَّبِيمُ - صبح - شام یا بھوک کے ساتھ صبح شام۔

الشَّبِيمُ - تھمیر - زہر - موت۔

الشَّبَامُ و الشَّبِيمَةُ - کڑی جو بکری کے بچے کے منہ میں لگادی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔

الشَّبَامُ - برقع کے دو دھاگے جن کو عورتیں پیچھے باندھ لیتی ہیں۔

المُشَبَّمُ - تھو تھنی لگانا جو بکری کا بچہ بھوکا۔

شَبِينٌ (ن) شَبِينًا - الغَلَامُ - لڑکے کا نازک اندام و پر گوشت ہونا۔ (شُبُونًا) الشَّيْءُ - قریب ہونا۔

الشَّابِيُّ مِنَ الْعِلْمَانِ - نازک اندام پر گوشت لڑکا۔

الشَّبِينُ و الأشْبِينُ - دولہا کا خدمت گار۔ شَبِينَةٌ و اشْبِينَةٌ - دامن کی خدمت گار (کلمہ سراسیمہ ہے)

الشَّبَانِيُّ و الأشْبَانِيُّ و الشَّبَانِيُّ - سرخ چہرے اور موٹھوں والا۔

شَبَهَةٌ - آئنا و شَبَهَةٌ بہ - تشبیہ و بنا - تمثیل و بنا۔ شَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ - مشتبه کرنا۔ شَبَهَ الشَّيْءُ - مشکل ہونا۔

شَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ - مشتبه کیا جانا۔

أَشْبَهُهُ و شَابَهَهُ - مانند ہونا۔ مشابہ ہونا۔ أَشْنَهُ فَلَانَ أُمَّةً فَلَانَ ابْنِي مَالٍ كَمَا شَابَهُ - یعنی عورت کی مانند عاجز و ضعیف ہے۔

نَشَبَهُ بِهِ - مانند ہونا عمل میں مشابہت کرنا۔

نَشَابَهُ - الرَّجُلَانِ - ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ الْأَمْرُ - مَنَشَابَةٌ یعنی غیر حکم ہونا۔

أَشْبَهَا - ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔

أَشْبَهَهُ لِي الْأَمْرُ - صحیح ہونے میں شک کرنا

الْأَمْرُ عَلَيْهِ - پوشیدہ اور مشتبه ہونا۔

الشَّبِيهُ و الشَّبِيهَةُ - مثل مانند۔ ج أشباه و مشابہہ جیسے (حسن و محاسن) الشَّبِيهَةُ - مشابہت ایک خار دار نباتات جس کے پھول سرخ ہوتے ہیں۔

(الشَّبِيهَةُ و الشَّبِيهَةُ و الشَّبِيهَانِ و الشَّبِيهَانِ) - جمل - الشَّبِيهَةُ - مثل - التَّبَاسُ - شک - جس میں حق و باطل یا حلال و حرام کا التَّبَاسُ ہو۔ ج شُبُهہ و شُبُهَات۔

الشَّبِيهَةُ - شیل - ایک جیسے۔ ج شِبَاهہ۔

المُشَبَّبَةُ و المُشَبَّبَةُ - مِنَ الْأَمْرِ - مشکل - جس میں التَّبَاسُ واقع ہو۔ کہا جاتا ہے "إِنِّي أَنَاكَ و المُشَبَّبَاتُ" - اپنے آپ کو امورِ مشکل سے بچاؤ۔

شَبَابِيئِيئِي شَبُونًا - الشَّيْءُ - بلند ہونا۔ الفَرَسُ - گھوڑے کا دو ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔

الْوَجْهَةُ - چہرے کا سخت ہونے کے بعد چمکانا۔ النَّازِجُ رَأْسٌ جَلَانًا - روشن کرنا۔

أَشْبَى اشْبَاءَ الرَّجُلِ - دینا۔ عَلَيْهِ - مہربان ہونا۔ ہ - تعظیم و اکرام کرنا۔ مصیبت میں ذُلًا الشَّجْوُ - لبا اور پیچیدہ ہونا۔

الشَّيْءُ - مہانا۔ الرَّجُلُ - ذہین تجوں والا ہونا۔ صفت (مُشْبِيٌّ و مُشْبِيٌّ) -

الْأَوْلَادُ أَبْنَاءَهُمْ - اولاد کا اپنے باپ کے مشابہ ہونا۔ الشَّبَابَةُ - نوزائیدہ بچھو یا زرد بچھو۔ دو ٹانگوں پر کھڑا ہونے والا گھوڑا۔ مِنَ السَّيْفِ -

دھار۔ بچھو کا ڈنک۔ ہر چیز کی حد۔ ج شَبَا و شَبَوَات۔ بیوقوف مرد۔ کہا جاتا ہے "هَذَا رَجُلٌ شَبَابَةٌ" - یہ بیوقوف مرد ہے۔

شَبَوَةٌ - بچھو کے لئے علم ہے اور علمیت تائید کی وجہ سے فیر معترف ہے اور کبھی اس پر الف لام بھی آتا ہے۔

الشَّبَوُ - دکھ - تکلیف۔ شَبْتُ (ض) شَبْتُ و شَبَاتًا و شَبِيئًا - متفرق ہونا۔

و شَبَّتْ و أَشَبَّتْ - الْأَشْيَاءُ - متفرق کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَشَبَّتْ بَيْنَ قَوْمِي" - میری قوم نے میرے کاموں کو پراگندہ کر دیا۔

شَبَّتْ و أَشَبَّتْ - الشَّغْلُ - متفرق ہونا۔

الشَّبْتُ - مہ - پر آگندہ کر دیا۔ شَبْتُ (ض) شَبْتُ و شَبَاتًا و شَبِيئًا - متفرق کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَشَبَّتْ بَيْنَ قَوْمِي" - میری قوم نے میرے کاموں کو پراگندہ کر دیا۔

شَبْتُ (ض) شَبْتُ و شَبَاتًا و شَبِيئًا - متفرق ہونا۔ شَبَّتْ و أَشَبَّتْ - الْأَشْيَاءُ - متفرق کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَشَبَّتْ بَيْنَ قَوْمِي" - میری قوم نے میرے کاموں کو پراگندہ کر دیا۔

شَبَّتْ و أَشَبَّتْ - الشَّغْلُ - متفرق ہونا۔

شَبَّتْ و أَشَبَّتْ - الشَّغْلُ - متفرق ہونا۔

شَبَّتْ و أَشَبَّتْ - الشَّغْلُ - متفرق ہونا۔

الشَّبْتُ - مہ - پر آگندہ کر دیا۔

أَمْرٌ شَبْتُ و شَبَاتٌ - پر آگندہ و متفرق۔ کام (مصدر سے وصف لایا گیا ہے) ج أَشْبَاتٌ کہا جاتا ہے "جَاءَهُ وَ شَبَاتًا و جَاءَهُ وَ أَشْبَاتٌ شَبَاتٌ" - وہ لوگ متفرق متفرق ہو کر آئے۔

شَبَاتٌ - وہ لوگ متفرق متفرق ہو کر آئے۔ نصب حالت کی وجہ سے ہے۔

شَبَاتٌ - جی علی الفتح اور کبھی نون مکسور ہوتا ہے۔ اسم فعل ہے بَعْدَ کے معنی میں۔ کہا جاتا ہے "شَبَاتٌ يَنْتَهِمَا وَ مَا يَنْتَهِمَا وَ مَا زَيْدٌ وَ أَخُوهُ" - یعنی ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔

الشَّبِيئَةُ - مہ - پر آگندہ۔ متفرق۔ ج شَبِيئٌ (جیسے مریض و مرضی) نَغَزَ شَبِيئَةً - چھدرے دانت۔

أَنَاسٌ (شَبِيئٌ و شَبِيئَاتٌ) - مختلف قبائل کے لوگ۔ أَشْيَاءٌ شَبِيئَةٌ - مختلف چیزیں۔ اور کہا جاتا ہے "وَقَعَزَ أَمْرٌ شَبِيئٌ" - وہ لوگ متفرق امور میں پڑ گئے۔

شَبَرٌ (ن) شَبَرًا - الشَّيْءُ - کانٹا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الرَّجُلُ - زخمی کرنا۔ العَيْنُ - پلک اٹھانا۔

شَبَرٌ (س) شَبَرًا - کانٹا۔ نیچے کے پٹھے ہوئے ہونٹ والا ہونا۔ بہ - گالی دینا۔ (شَبَرٌ و شَبَرٌ) - الٹی ہوئی پلک والا ہونا یا نیچے کے ڈھیلے پلک والا ہونا۔

شَبَرٌ - عینہ۔ پلک اٹھانا۔ گالی دینا۔ عیب لگانا۔ قبیح باتیں سنانا۔

أَشَبَرْتُ - عینہ۔ الٹی ہوئی پلک والی ہونا۔ أَشَبَرْتُ - مہ - کانٹا۔ پلک اٹھانا۔ عیب و نقص۔ الشُّبْرَةُ - دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔

الشَّبِيئَةُ - بہت عیب و برائی والا۔ بد خلق۔ الْأَشَبَرُ - الٹی ہوئی پلک والا۔ بچی ہوئی پلک والا۔ نیچے کی ڈھیل پلک والا۔ نیچے کے پٹھے ہوئے ہونٹ والا۔ مَوْنَتُ شَبْرًا - ج شَبْرٌ۔

الشُّبْرَةُ - بڑے سرخ کی عورت۔ شَبَعٌ (س) شَبَعًا - بیمار یا بھوک کی وجہ سے گھبرا ہوا۔

شَبَعَةٌ (ض) شَبَعًا - شَبَعًا - رونڈنا۔ زایل کرنا۔ أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَشَبَعَهُ - تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

المشایع ہلاکتیں۔
 شَمَمَةٌ (ن ض) شَمَمًا وَمَشَمَمَةً وَمَشَمَمَةٌ وَتَشَمَمًا. گالی دینا (شَمَمًا) گالی دینے میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَمَمَةٌ فَشَمَمَةٌ" اس نے اس سے گالی دینے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔
 شَمَمٌ (ک) شَمَامَةٌ بد صورت و کسرہ النظر ہوتا۔ صفت (شَمِيمٌ) الشَّيْمِيُّ غضبناک شیر۔
 شَمَمَةٌ بہت گالی دینا۔
 شَمَامَةٌ باہم گالی گلوچ کرنا۔
 تَشَامَتُمُ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔
 تَشَمَمٌ: گالی سننے کے درپے ہونا۔
 الشَّمَامَةُ: مہ۔ بد صورتی کے ساتھ بدن کی درشتی۔
 الشَّيْمَةُ: گالی ج شَمَامَتِي۔
 الشَّمَامُ وَالشَّمَامَةُ: بڑے چہرہ والا۔ بد خلق۔
 الشَّمَامُ وَالشَّمَامَةُ: بہت گالی دینے والا۔
 الشَّمَامَةُ: شیر غضبناک۔
 شَمَنٌ (ن) شَمَنًا: القُوب: کپڑے کو بنا۔ صفت (شائین)
 الشَّمْنُ: مہ۔ کہا جاتا ہے "وَجُلٌ شَمْنٌ الكف" سخت پھٹلی والا مرد۔
 الشَّمُونُ: بننے والا۔
 شَمًا يَشْمُو شَمَوًا وَشَمِي تَشِيمَةٌ وَتَشِي تَشِيمًا: بالبلد: کسی شہر میں جاڑے میں قیام کرنا۔ شَمًا وَتَشِي الْمَكَانَ: بزمانہ سرا قیام کرنا۔ شَمَاءُ: زمانہ سرا کے لئے کافی ہونا۔
 شَمًا يَشْمُو شَمَوًا وَشَمِي وَأَشِي الْقَوْمُ: موسم سرا میں داخل ہونا۔ موسم سرا میں قیام سال کی تکلیف اٹھانا اور کہا جاتا ہے "هَذَا شَمِي يَشِيمُنِي" یہ زمانہ سرا میں میرے لئے کافی ہوگی۔ حَمَامَةُ الشَّمَاءِ: سردی بڑنا۔
 شَمِي مَشَامَةٌ وَشَمَاءُ الرَّجُلِ: جاڑے بھر کے لئے معادلہ کرنا۔
 الشَّمَاءُ: موسم سرا۔ ج أشِيمَةٌ وَشَمِي: اور نسبت کے لئے (شَمُونِي وَشَمُونِي) الشَّمُونِي: جاڑے کی بارش فاکھنہ الشَّمَاءُ: آگ۔
 الشَّمَاءُ وَالشَّمَاءُ: قَط۔

الشَّمَاءُ وَالشَّمُونَةُ: جاڑا۔ صاحب الشَّمُونَةُ: وہ شخص جس کے پاس جاڑے میں پناہ لیں۔
 الشَّمِي: جاڑے کی بارش۔
 المَشَمِيُّ وَالْمَشَمَاتَةُ: جاڑے کا زمانہ یا جاڑے کی جگہ۔ موسم سرا گزارنے کی جگہ۔ ج المَشَامِيُّ۔
 کہا جاتا ہے هَذِهِ مَشَامَاتِنَا وَمَشَامَاتِنَا وَمَشَامَاتِنَا وَمَشَامَاتِنَا: یہ ہمارے سرانی و گرمائی و رشتی منازل ہیں۔
 أَلَشَمْتُ: چھوٹے سیب کی طرح خوشبو دار کڑوے مزے کے پھل کا ایک درخت جس میں کاسٹے نہیں ہوتے اور اس کے پھل کو چڑے کی ریاضت میں استعمال کرتے ہیں۔ جنگلی اخروٹ۔ شمد کی کھیاں۔ پہاڑ کی چوٹی جو ٹوٹنے کے بعد کنگرہ کی مانند رہ جائے۔ ج شِمَاثُ: واحد (الشَّمَثَةُ) الشَّمْتُ: ہر چیز کی بہت تعداد۔
 شَمِيرٌ (س) شَمِيرًا: عَيْنُهُ: آنکھ موٹی ہونا۔
 الشَّمِيرُ: پہاڑ کا کنارہ۔ ج شَمِيرٌ: قِطَاعٌ شَمِيرَةٌ: نیزہ کر جس کے گلے ٹوٹنے کے وقت اڑیں۔
 شَمِلْتُ (س) شَمَلًا وَشَمَلْتُ (ك) شَمُولَةٌ: اصابعُهُ: موٹی ہونا۔
 شَمِيلٌ: الأَصَابِعُ: سخت اور موٹی اٹھیں والا۔
 قَدَمٌ شَمَلَةٌ: موٹا اور سخت قدم۔
 شَمِيٌّ: بمعنى شَمِيلٌ۔
 شَمَجٌ (ن ض) شَمَجًا: الرَأْسُ: زخمی کرنا۔ توڑنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَشْمَجُ مَرَّةً وَيَأْسُومُ مَرَّةً" فلاں کبھی غلطی کرتا ہے کبھی درست کرتا ہے۔ شَمَجٌ المَفَارِزَةُ: بیابان طے کرنا۔
 المَزَكِبُ النَحْوُ: جہاز کا سمندر کو پھاڑنا۔
 الشَّمَرَاتُ بِالْمَاءِ: طوٹی کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَمَجُ الْأَرْضِ بِوَأَحْلِيهِ" یعنی بہت تیز چلایا۔
 شَمَجٌ (س) شَمَجًا: سر میں زخم یا نشان زخم والا ہونا۔ صفت (أَشَجٌ وَشَجِيحٌ) ج شَجِيٌّ وَ (مَشَجُوجٌ وَمَشَجِيحٌ) الشَّجِيحِيحُ وَالْمَشَجِيحُ: بچ۔ کھوٹی۔
 شَجِيحَةٌ: سر کو بہت زخمی کرنا۔ شَمَجٌ عَلَى الْأَفْرِ: پختہ ارادہ کرنا۔
 شَمَجٌ مَشَامَةٌ وَشَجَا جَا وَشَمَجٌ الْقَوْمُ:

ایک دوسرے کے سر کو زخمی کرنا۔
 الشَّجَا ج: نطاعے آسانی۔
 الشَّجَّةُ: سر کا زخم ج شَجَا ج۔
 الشَّجِيحُ: مہ۔ پیشانی میں زخم کا نشان۔
 الشَّجَا ج: سر کو بہت زخمی کرنے والا۔
 شَجِيحَةٌ (ن) شَجِيحًا: ہلاک کرنا۔ تمکین کرنا۔
 شَجِيحٌ كَرْمِيحٌ مَشْوَلٌ: کہا جاتا ہے "إِنَّكَ لَتَشَجِيحُنِي عَنْ حَاجَتِي" تو مجھ کو میری حاجت سے مشغول رکھتا ہے "شَجَبَ الْقَتِيئَةَ بِشَجَابٍ" اس نے شیشی میں ڈاٹ لگا لی۔
 شَجَبٌ (ن) شَجَبًا وَشَجْبُونًا وَشَجَبٌ (س) شَجَبًا: ہلاک ہونا۔ مرنا۔ تمکین ہونا۔ صفت (شَجَبٌ وَشَجَابٌ) الشَّمِيُّ: جانا۔
 شَجَبٌ (ن) شَجَبًا: الغُرَابُ: کوسے کا جہاز کے لئے آواز کرنا۔
 أَشَجِبَةٌ: تمکین کرنا۔
 تَشَجَبٌ: الشَّمِيُّ: خلط طپ ہونا۔ بعض کا بعض میں داخل ہونا۔
 تَشَجَبٌ: تمکین ہونا۔
 الشَّجَبُ: مہ۔ حاجت۔ غم۔ ستون خانہ۔ منگ کر جس کا نصف کاٹ کر ڈول بنا لیں۔ ج شَجْبُوبٌ وَأَشَجِبَابٌ۔
 الشَّجَبُ: مہ۔ رنج و تکلیف جو مرض یا نال کی وجہ سے لاحق ہون ج شَجْبُوبٌ۔
 الشَّجَابُ: بہت تک کر کے والا۔
 مِنَ الْغُرَبَانِ: بہت کاسیں کاسیں کرنے والا کوا۔
 الشَّجَابُ: شیشی وغیرہ کی ڈاٹ۔ ج شَجَبٌ الشَّجَبُ وَالشَّجَبُ وَالْمَشَجَبُ: لکڑی کا شینڈ جس پر کپڑے رکھے اور پھیلانے جاتے ہیں۔
 الشَّجَبَاءُ: منگ۔
 الشَّجْدَةُ: نرم بارش۔
 المِشْحَاذُ: گوجھن۔
 شَجْرٌ (ن) شَجْرًا: الشَّمِيُّ: باندھنا۔
 فَلَانًا: علیحدہ کرنا۔ منع کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا شَجْرُكَ عَنْ كَذَا" تم کو فلاں سے کس چیز نے روکا۔ الرَّجُلُ بِالرَّمْحِ: نیزہ مارنا۔
 فَمَةٌ: لکڑی سے کھونا۔ الذَّابَّةُ: جانور کو

نہرانے کے لئے لگام سے اراتا ہاں تک کہ منہ کھول دے۔ الشجرۃ: درخت کے بعض حصے کو پکڑنا۔ النبت: ستون لگانا۔ النبتات: جملی ہوئی ٹہنیوں کو اٹھانا۔

شجر (ن) شجرۃ او شجرۃ۔ بینہم آمنو: مختلف فیہ ہونا اور کہا جاتا ہے "شجر مائینہم" ہاہم بھگڑنا۔

شجر (س) شجرۃ۔ الرجل: بست رحمت والا ہونا۔

شجر۔ التبات: درخت ہو جانا۔ التخل: ٹوٹنے کے خوف سے خوشہ کو نشی پر رکھنا۔

شجرۃ مشجرۃ: بھگڑنا کرنا۔ الماشیۃ: گھاس وغیرہ ختم ہو جانے سے درخت کے چوں پر گزارہ کرنا۔ الماشیۃ: جانور کو درخت چرانا۔

شجرۃ المشکان: درخت آگانا۔ تشاجر القوم: ہاہم مخالفت کرنا۔ ہاہم بھگڑنا کرنا۔ تشاجر بالرماح: ہاہم تیز بازی کرنا۔ الشی: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

انشجر: جلدی سے چمکارا پانا۔ نؤمہ: نیند کا دور ہونا۔

انشجر القوم: ہاہم بھگڑنا۔ الرجل: آگے بڑھنا۔ جلدی سے چمکارا پانا۔ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ کا سارا دینا اور اسی سے ہے "نبت مؤتفقا مشجرًا"۔

نؤمہ: نیند کا دور ہونا۔

الشجر: درخت، ج اشجار و شجرۃ۔ واحد (شجرۃ) شجرۃ۔ شجرۃ النسب: جس میں مورث اہل سے لے کر اولاد و اولاد تک کا بیان ہو۔ الشجرۃ الملقوۃ: تمہر کا درخت۔ شجرۃ الحیات: او شجرۃ مغرفۃ الخیر من الشجر: وہ درخت جس کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔

الشجر: درخت۔ شجر میں ایک لغت ہے۔ الشجر: مہ۔ مختلف فیہ امر۔ ٹھوڑی یا دونوں جیزوں کے درمیان کا حصہ۔ منہ کا وہ حصہ جو بند

کرتے وقت ظاہر ہو۔ ج اشجار و شجرۃ و شجرۃ: الحروف الشجریۃ: ش ض ح۔ اور بقول بعض۔ ش ح ق کی۔

الشجرۃ: اسم مرۃ۔ چاہ زخداں۔

مکان (شجر) و شجر و أشجر و مشجر) درختوں والی یا بست درختوں والی جگہ۔ مؤنث شجرۃ و شجرۃ و شجرۃ و شجرۃ و مشجرۃ۔

الشجرۃ: گنجان درخت۔ گنجان درختوں والی زمین اور اس کے مقابلہ میں مراد ہے۔ یعنی وہ زمین جس میں درخت نہ ہوں۔ اور اس سے ہے "قلظت کل شجرۃ و مؤذآء" میں نے ہر قسم کی گنجان درختوں والی اور پھیل زمین طے کی۔

الشجار و الشجار: ہودہ کی لکڑی۔ کھلے ہوئے سر کی چھوٹی یا کئی۔ الشجار: دروازے کے پیچھے لگانے کی لکڑی۔ تمہر یعنی لکڑی جو بکری کے بیچے کے منہ میں لگائی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔ کنوئیں پر کی لکڑی۔ اونٹ کا داغ۔ ج شجر۔

الشجر: تلوار۔ اجنبی اونٹ یا آدمی۔ برا ساتھی۔

الشجار: درختوں کا ہر ج شجرانوں۔ الشواجر: مشقول رکھے والی چیزیں۔ حواہج و رماح شواجر: ایسے تیزے جن کے گھاؤ مختلف جگہ ہوں۔

المشجر و المشجر: ہودہ کی لکڑی، کھلے ہوئے سر کی چھوٹی یا کئی۔ المشجر: درخت کی جگہ۔ المشجر: لکڑی کا اسٹینڈ جس پر کپڑے رکھے یا پھیلائے جاتے ہیں۔ ج مشاجر۔

مکان (مشجر) بست درختوں والی جگہ۔ نؤب (مشجر) درخت کی طرح نقش و نگار سے مزین کپڑا۔ اہل چین کی تحریر کو بھی مشجر کہتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ بھی درخت کی طرح ہوتی ہے۔

شجع (ک) شجاعۃ۔ دلیر و سادہ پونا۔ شجعۃ (ن) شجعۃ۔ دلیری و بہادری میں غالب ہونا۔

شجع (س) شجعۃ۔ لباہونا۔ صفت (أشجع) مؤنث شجعۃ۔

شجعۃ: قوی دل بنانا۔ علی الأمر: جرأت دلانا۔

شجاعۃ: دلیری میں مقابلہ کرنا۔

شجع: بہادر بنانا۔ بکلف دلیری ظاہر کرنا۔

الشجاع و الشجاع و الشجاع: دلیر بہادر۔ جری۔ ج شجعان و شجعان و شجاع و شجعۃ و شجعۃ و شجعۃ و شجعۃ۔

الشجاع و الشجاع: ایک قسم کا سانپ۔ ج شجعان و شجعان و أشجعۃ۔ رجل (شجعۃ و شجعۃ) عاجز بزدل مرد۔ بے ڈول لباہ۔

الأشجع: اسم تفضیل۔ بہادر۔ مؤنث شجعۃ۔ ج شجع۔ شیر لباہ۔ آگے بڑھنے والا اونٹ۔ ایک قسم کا سانپ۔ زباند۔

الأشجع و الأشجع: انگلی کی جڑ جو ظاہر کف کے پچھے سے ٹلی ہوتی ہے یا پھیلنے کی پشت کی رگ۔ ج أشجاع۔

الشجع: بہادر۔ دیوانہ اونٹ۔ جعل شجع القوائم: جلدی قدم اٹھانے والا اونٹ۔

الشجع: دلیر بہادر۔ ج شجعان و شجاع و شجعۃ و أشجعۃ۔ مؤنث شجعۃ۔ ج شجاع و شجاع و شجع۔ الشجع: درخت کی جڑیں۔

الشجاعۃ: دلیری۔ بہادری۔ خوف کے وقت دل کی مضبوطی۔

المشجع: انتہائی باکل۔ الشجعۃ: شیر لباہ۔ جرم انسان یا انسان کی گردن۔

الشجع: ہلاکت۔ الشجع: لمبی اور بڑی مہجیں۔

شجن (س) و شجن (ک) شجن و شجنون۔ عمگین ہونا۔ صفت (شاجن)۔

شجنۃ (ن) شجن و شجنون و شجنۃ۔ عمگین کرنا۔

شجنۃ (ن) شجنون۔ الحماۃ: کوتاہ کام کے ساتھ لوہہ کرنا۔

أشجنۃ۔ عمگین کرنا۔ أشجن الکثرم: انگور

کے درخت کا پچیدہ اور ابھی ہوئی شاخوں والا ہوتا۔

تَشَجَّنَ - حرکت کرتا۔ ٹمگین ہونا۔
الْأَمْزُ بِيَاذِ كَرْنَا الشَّجْوُ - درخت کا ٹمگان ہونا۔

الشَّجْنُ - مہ - الشَّجْنُ - ج شَجْوُنٌ و (الشَّجَانَةُ - ج شَوَاجِنٌ) وادی کا راستہ یا وادی کے بالائی حصہ کا راستہ۔

الشَّجْنُ - مہ - غم - اندوہ - خواہش نفس - ج شَجْوُنٌ وَأَشْجَانٌ - (الشَّجْنُ وَالشَّجْنَةُ وَالشَّجْنَةُ وَالشَّجْنَةُ) ابھی ہوئی پچیدہ ٹمگی ہر چیز کی شاخ۔ کہتے ہیں "الْحَدِيثُ ذُو شَجْوُنٍ" یعنی بات میں بات نکلتی ہے۔ الشَّجْنَةُ: پہاڑ کا شگاف۔ شَجْنَةٌ وَشَجْنَةٌ كِي تَجَّ شَجْنٌ وَشَجْنٌ وَشَجْنٌ وَشَجْنَاتٌ وَشَجْنَاتٌ۔

شَجَا (ن) شَجْوًا وَأَشْجَى إِشْجَاءً - الزَّجْلُ: ٹمگین کرنا۔ خوش کرنا (شد) برا ٹمگین کرنا۔ أَشْجَى الْغَرِيمِ أَوْ السَّائِلِ: قرض خواہ یا سائل کو اس کی خواہش کے مطابق دینا۔

شَجِي (س) شَجَا - ٹمگین ہونا۔
بِالشَّجَا: حلق میں ہڈی پھنس جانے سے گھٹنا اور اسی سے ہے "عَلَيْكَ بِالْكُظْمِ وَإِنَّ شَجِيَّتَ بِالْعَظْمِ" اگر تمہارے حلق میں ہڈی پھنس جائے تو اپنے اوپر پرداری کو لازم جانو۔ شَجِي الْغَرِيمِ عَنهُ: جانا۔ تَشَاجَى: حزن و ملال ظاہر کرنا۔

الشَّجَا - مہ - ہڈی وغیرہ جو حلق میں پھنس جائے۔ غم و اندوہ۔

الشَّجْوُ - مہ - غم - اندوہ - حاجت - کہا جاتا ہے "لَهُ عِنْدِي شَجْوٌ" اس کی مجھ سے ایک حاجت ہے۔ گریہ و زاری کا ایک درد۔ کہا جاتا ہے "بَكَى فَلَانَ شَجْوَهُ" و "بَكَتِ الْحَمَامَةُ شَجْوَهَا" الشَّجِي الشَّجِي - ٹمگین۔ فکرمند۔ مَوْتٌ شَجِيَةٌ وَ شَجِيَّةٌ اور نسبت کے لئے (الشَّجْوِيُّ) مَفَازَةٌ (شَجْوَاءٌ) دشوار گزار پیاہاں۔

الشَّجْوَجِيُّ وَالشَّجْوَجَاةُ - لگاتار ہوا۔

الشَّجْوَجِيُّ: بہت لمبایا لمباموٹی ہڈیوں والا۔ مَوْتَا فَرِيَهُ غَوْزًا۔

المَشَّجُورُ - اندوہناک۔
شَجَّ (ن ض س) شَجًّا وَشَجًّا وَشَجًّا - بِالشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ: بخل کرنا۔ حرص کرنا۔ شَخَّ بِالشَّيْءِ عَلَى فُلَانٍ: کسی سے کسی چیز کا بخل کرنا۔ ہ: کسی سے جھگڑا کرنا۔ اسی سے ہے "لَا مُشَاحَّةَ فِي الْأَمْوَالِ" یعنی معاملہ بالکل صاف ہے اس میں کوئی منافقت اور جھگڑا نہیں۔

شَخَّ الْقَوْمَ عَلَى الْأَمْوَالِ فِيهِ: کسی چیز میں باہم بخل کرنا۔ تَشَاحَا عَلَى الشَّيْءِ: اپنے لئے اختیار کرنے کا ارادہ کرنا۔ تَشَاحَا الْخَصْمَانِ فِي الْحَدَلِ: ہر ایک کا قاب ہونے کا ارادہ کرنا۔ الشَّخَّ - مہ۔

الشَّحِيحُ: بخیل۔ حریص۔ ج شَحَاحٌ وَ أَشْحَاءٌ وَأَشْحَاءٌ - مَوْتٌ شَحِيحَةٌ - ج شَحَاحٌ: اہل شَحَاحٌ کم دودھ والی اونٹنیاں۔ الشَّحَاحُ: بخیل۔ حریص۔ الشَّحَاحُ مِنَ الْأَرْضِ: وہ زمین جو بغیر زیادہ بارش کے پانی نہ بہائے۔ زَنْدٌ شَحَاحٌ: چھتاق جو آگ نہ دے "فَاءُ شَحَاحٌ": تھوڑا پانی جو زمین کو نہ ڈھکے۔

شَحَبَ (ف ن) وَ شَحَبَ (ك) وَ شَحَبَ شَحْوَبَةٌ وَ شَحْوَبَةٌ: لَوْنَةٌ: بھوک یا مرض وغیرہ کی وجہ سے چرے کا رنگ بدلنا۔

الشَّاحِبُ - فَا - لا غر یا رنگ بدلا ہوا اور کہا جاتا ہے "شَاحِبُ اللَّوْنِ" جیسے کہا جاتا ہے "شَاحِبُ الْجِسْمِ"

شَحَبَتْ (ف) شَحَبًا الْمُدْيَةَ: چھری تیز کرنا۔ شَحَجَ (ف ض) شَحِيحًا وَ شَحَاحًا وَ تَشَاحَا وَ تَشَاحَا: البَقْلُ أَوْ الْغُرَابُ: ٹھنڈا۔ کھجور کا پھنٹا۔ کوئے کا کاکس کا پھنٹا۔

الشَّحَاحُ وَالْمَشْحَجُ وَالشَّاحِبُ: گور ٹر۔ بَنَاتٌ شَحَاحٌ وَ بَنَاتٌ شَاحِبٌ: ٹھنڈا۔ شَحَاحٌ: البَقْلُ أَوْ الْغُرَابُ (و شَحِيحُهُمَا) ٹھنڈا۔ کھجور کی آواز۔

الشَّوَاحِجُ: کوئے۔

شَجَذَ (ف) شَجَذًا - السَّكِينُ وَ نَحْوُهُ: چھری تیز کرنا۔ صفت مفعول (شَحْوَذُو شَجِيذًا)

هَبْتَصِرُهُ: گھورتا۔ هَبْتَصِرُهُ: نظریہ لگانا۔

الشَّجْوَعُ مَعْدَتُهُ: سخت بھوک لگانا۔ فِي التَّسْوَلِ: مانگنے میں بہت اصرار کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَشْحَذُ النَّاسَ" وہ لوگوں سے اصرار سے مانگتا ہے۔ عَلَيْهِ: غصبتاک ہونا۔ الذَّابَّةُ: جانور کو تیز ہانکنا۔ وَ تَشْحَذُهُ: ہٹانا۔ دھکارتا وَ تَشْحَذُ الزَّجْلُ: سوال کرنے میں اصرار کرنا۔

أَشْحَذَ السَّكِينُ: چھری تیز کرنا۔ شَاحَذَهُ: تلوار وغیرہ تیز کرنے میں مشابہت کرنا۔

الشَّحَاذُ: گداگر۔ سائل۔ ج شَحَاحِدَةٌ (الشَّحَاذَةُ) گداگری کا پیشہ۔

الشَّحَذَانُ وَ الشَّحَذَانُ: بھوکا۔ ہانگے والا۔ ہلکا چلنے والا۔

زَجْلٌ (شَحْذُوذٌ) تیز اور غصہ کے وقت طیش میں آنے والا۔

المَشْحَذُ: چھری وغیرہ تیز کرنے کا سامان تیز ہانگے والا۔

المَشْحَاذُ نِيلٌ: پہاڑ کی چوٹی۔ ج مَشْحَاذٌ - المَشْحَذَةُ: وہ چیز جو باعث تیزی ہو۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْكَلَامُ مَشْحَذَةٌ لِّلْفَهْمِ" یہ کلام سمجھ کے لئے باعث تیزی ہے۔

شَحَزَ (ف) شَحَزًا: منہ کھولنا۔

الشَّحْرُ - مہ - پانی پینے کی جگہ۔ بطن وادی (و الشَّحْرُ) انکارہ - سائل۔

شَحْرَ عَمَّانَ وَ شَحْرَ عَمَّانَ: عمان اور عدن کے درمیان کا ساحل۔

الشَّحْوَرَةُ: ٹنگ ساحل۔ الشَّحْوَرُ: کالے رنگ کا چڑیا سے بڑا ایک خوش آواز پرندہ۔ ج شَحْوَرِيٌّ۔ اور اس کو (شَحْوَرٌ) بھی کہا جاتا ہے۔

شَحَزَ (س) شَحَزًا: گھبرانا۔ وَرْنَا - شَحَزَ (ف) شَحَزًا: جمع کرنا۔

شَحَشَحَ: البَعِيْرُ: اونٹ کا آواز کو پھرانا۔ الظَّائِرُ: پرندہ کا جلدی سے اُڑنا۔

شَحْرَبْنَا: الضُّرْدُ: آواز کرنا۔

مارنے کے لئے تیار کرنا۔ الصبی: رونے کے لئے آلودہ ہونا۔
 شاختہ: بغض و عداوت رکھنا۔ دشمنی کرنا۔
 تشاختوا: ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔
 الشختاء: بغض۔ کینہ۔ دشمنی۔ عداوت۔
 الشختہ: عداوت۔ دشمنی۔ کشتی بھرنے کی چیز۔ شختة البلید: پولیس۔ کووال۔ سواروں کی جماعت کا ایک دستہ۔ کہا جاتا ہے "بالتلویحختة من الخیل" شرمیں سواروں کی جماعت کا ایک دستہ ہے۔ البختة: چارپایوں کے لئے ایک سو دن رات کا چارہ۔ رج شخن۔ مژکب (شاجن) بھری ہوئی سواری۔
 المشاجن: قا۔ عدو و مشاجن: بہت سخت دشمنی کرنے والا دشمن۔
 شخايشخو و شخايشخو: التوجل: منہ کھولنا۔ اللجم: فم الفرس: کھولنا۔ شخا التوجل: قدم کو دور دور رکھنا۔ الفم: کھانا۔
 اشخی: فاه: کھولنا۔
 شخنی تشخنة: فوة: منہ کھانا۔
 تشخنی: علیہ: زباں درازی کرنا۔
 الشخاء: وسیع کشادہ چوڑا۔
 الشخو: جوف۔
 الشخوة: اسم مرؤ۔ قدم۔ کہا جاتا ہے "فرض یعیذ الشخوة" دور دور قدم رکھنے والا گھوڑا۔
 "توجل" یعیذ الشخوة فی مقاصده" اپنے مقاصد میں عالی بہت مرد۔
 الشخواء: چوڑا کتواں۔
 شخی شخی شختا: ایک لخت ہے۔ شخاواوی میں۔
 طخ (ن) شخا: پیشاب کرنا۔ فی التوم: خراٹے لینا۔ اللبین: روکنے کے وقت آواز لگانا۔
 شخب (ف) شخبوا و شخبنا: اللبین: دوہنا۔ اللبین: سنا۔ أوداخ القبیل ذما: متقول کی رگوں سے خون جاری ہونا۔
 إنشخب: دوحا جانا۔

صفت (شحم)
 شحمت (س) شخوما: النافة: لاغری کے بعد موٹی ہونا۔
 أشحم: بہت چربی والا ہونا (۔۔۔ و شحم) القوم: چربی کھانا۔
 الشحم: چربی۔ ایک نکلے کو (شحمة) کہتے ہیں۔ رج شخوم۔
 الشاجم و الشحام: چربی بیچنے والا۔ الشحام: بہت چربی کھانے والا۔ کہا جاتا ہے "زجل" شاجم لاجم" چربی دار پر گوشت مرو یا لوگوں کو بہت چربی کا گوشت کھلانے والا۔
 الشخمة: چربی کا نکلنا۔ شخمة الأضی: کچھو۔ سانپ کی چھتری۔ شخمة الأضی و شخمة الزمل: گرگٹ کی قسم کا ایک جانور جو زمین یا ریت میں گھس کر رہتا ہے۔ العین: آنکھ کا گلہ۔ شخمة الأذن: کان کی لو۔ شخمة الزمان: انار کے اندر کاربائیک چمکنا۔ الصرح: خطمی اور امثال میں سے ہے "ما کلتی بیضاء شخمة ولا کلتی مؤذاة نومة" ہر سفید چیز چربی اور ہر سیاہ چیز کچھو نہیں ہوتی۔ اس موقع پر لیتے ہیں جب کسی ایک صفت میں مشابہت اور بقیہ صفات میں مخالفت ہو۔
 الشحم: تھوڑے رس کا تھوڑا۔ چربی کا تھوڑا۔
 الشحیم: اکڑ۔
 الشحیم: موٹا۔
 الشحیم و الشحیمة: سرایوں کے فرائض نمازی کتاب (کلمہ سرانیہ ہے)
 المشحیم و المشحیم: گھر میں بہت چربی رکھنے والا۔
 المشحیم و المشخوم: چربی کی بنی ہوئی چیز۔
 شخن (ف) شختا: السقیفة: کشتی پر لادنا۔ المدینة بالخیل: بھرنا۔ الرجل: دھکارنا۔ دور کرنا۔
 شخن (ف) و شخن (س) شختا: الکیلاب کتوں کا دور تک جانا اور شکار نہ کرنا۔
 شخن (س) شختنا علیہ: کینہ رکھنا۔
 أشخن: امکان: بھرنا۔ السیف: میان میں کرنا۔ سوتھا (شد)۔ لذبسہم: تیر

الشخشع و الشخشاخ: بے برکت۔
 تخیل: بد غلط۔ بیکلی کرنے والا۔ الشخشع: وسیع بیابان۔ ہمار مرد۔ غیرت دار۔ خوش بیان بیکہار۔
 الشخشخان: تخیل۔ غیرت دار۔ لبا۔
 المشخشع و المشخشع: بے برکت۔
 أشخصة: تمکنا۔ من مکان و شخصة: غنہ: دور کرنا۔ ہٹانا۔ جلا وطن کرنا۔
 الشخو: صحن کی وجہ سے ڈلی اونٹنی۔
 شخط (ف) شخطا و شخطا و شخوفا و مشخطا: الأناة: برتن بھرنا۔ اللبین: دودھ میں زیادہ پانی ملانا۔ العقوب: الرجل: بچھو کلاسا۔ الطائر: پرندہ کابیت کرنا۔ فلانا: سبقت لے جانا۔
 و شخط (س) شخطا: مکان: دور ہونا۔ شخط و شخط الجمل: اونٹ کو وزن کرنا۔
 شخط بالدم: خون سے تھڑنا۔
 شخط: خون میں تھیزنا۔
 أشخط: دور کرنا۔
 تشخط بالدم: خون سے تھڑنا۔
 الشخط: مہ۔ خون میں لپت ہونا۔ پرندہ کی بیٹ (۔۔۔ و المشخط)۔ انگور کی شنیوں کو اٹھانے کا تھم۔ عوام اس کو (مشفوک) کہتے ہیں۔
 منزول (شاجن) دور کی منزل۔
 الشخاط: دور۔
 شواخط: الادویة: دور کی وادیاں۔
 الشوخط: لہی گھوڑی۔
 شخک (ف) شخکا: الجدی: بکری کے بچے کے منہ میں تھو تھنی لگانا۔
 الشخاک: تھو تھنی جو بکری کے بچے کے منہ میں لگائی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔
 شخل: الکزم: انگور کی تیل تراشا۔ کلمہ عامیہ ہے۔ صیح قضب ہے۔
 شخمة (ف) شخما: چربی کھانا۔
 شخم (ک) شخامة: بہت چربی دار ہونا۔ صفت (شحم)
 شخم (س) شخفا: چربی کی خواہش کرنا۔

الزمامی: نشانہ سے ہٹ کر بلند پڑنا یا ڈالنا۔ (لازم و متعدی)
 تَشَخُّصٌ - معین ہونا۔ تمیز ہونا۔ لُغَةً: کسی شخص کی صورت دکھائی دینا۔
 تَشَاخُصُوا - باہم اختلاف کرنا۔
 الشَّخْصُ - جسم انسانی وغیرہ جو دور سے دکھائی دے۔ ج - اشْخَاصٌ و اشْخَاصٌ و شُخُوصٌ۔
 الشَّخِصُ - جسم۔ مؤنث شَخِصَةٌ۔ سردار۔
 مِنَ الْمَنْطِقِ: ترش روئی سے گفتگو کرنے والا۔
 الشَّخْفُ - دودھ دھونے کی آواز۔
 الشَّخَافُ - دودھ۔
 شَخْلٌ (ف) شَخْلًا - الشَّرَابُ: صاف کرنا۔
 الشَّاقَّةُ - دوسٹا۔
 شَاخَلَهُ - خالص دوستی کرنا۔
 الشَّخْلُ وَالشَّخِيطُ - خالص دوست۔
 الْمَشْخَلُ وَالْمَشْخَلَةُ - چمٹنا۔
 الْمَشْخَلَبَةُ - موتی کے مشابہ سفید مرہ۔ ایک زیور کا نام جو درخت ترمی کی چھال اور مرہ سے بناتے ہیں اور کبھی اس لڑکی کو بھی مَشْخَلَبَةُ کہتے ہیں جو اس زیور کو استعمال کرے۔
 شَخَمٌ (ن) و شَجَمٌ (س) و شَخْمٌ (ک) شُخُومًا و شُخْمًا و اشْخَمَ - الطَّعَامُ او اللَّحْمُ: بگڑنا۔ خراب ہونا۔ فاسد ہونا۔ صفت (شَجَمٌ) الفم: منہ کا بدبودار ہونا۔
 اشْخَمَ الزَّجْلُ: رونے کے لئے تیار ہونا۔
 شَخَمَ الطَّعَامُ: خراب کرنا۔
 الطَّعَامُ: خراب ہونا۔ الفم: منہ کا بدبودار ہونا۔
 اشْخَامُ التَّبِيثِ: خشک و ترگھاس کا آپس میں مل جانا۔
 شَخْرٌ (اشْخَمَ) سفید بال۔ زَوْجٌ اشْخَمٌ: بے نباتات کے باغ۔ عامٌ اشْخَمٌ: خشک سال جس میں نہ پانی ہونہ چر اگاہ۔
 الشَّخْمُ - وہ لوگ جن کی ناک خوشبو یا بدبو سے بند ہوگئی ہو۔
 الشَّخَا - شورہ زار۔
 شَدَّ (ض) شَدًّا - الزَّجْلُ: دوڑنا۔

الشَّخْرُ - رنج و مشقت کی شدت۔
 شَخَسَ (ف) شَخْسًا - الزَّجْلُ: مضرب ہونا۔
 الْجِمَازُ: گدھے کا جمالی کے وقت منہ کھولنا۔
 اشْخَسَ - الزَّجْلُ و بہ: نسیب کرنا۔ اشْخَسَ لَهُ فِي الْمَنْطِقِ: گفتگو میں ترش روئی کرنا۔
 شَاخَسَ - امْرُؤٌ الْقَوْمِ: مختلف ہونا۔
 الْجِمَازُ: لید سو گھنٹے کے بعد سر اٹھا کر منہ کھولنا۔
 تَشَاخَسَ - الْجِمَازُ: بمعنی شَخَسَ او شَاخَسَ۔ اَسْتَنَاهُ: بڑھاپے کی وجہ سے گر کر یا جھک کر بے ترتیب ہونا۔ امْرُؤُهُمْ: بہا۔
 الشَّخِيشُ - حکم کے خلاف کرنے والا۔ امر حَقْرٌ۔
 شَخَشَعَ - يَبْزُلُهُ: دور تک پیشاب کی دھار گرانا۔ صفت (شَخَشَا) شَخَشَحَتِ النَّاقَةُ: بیٹھے ہوئے سید اٹھانا۔
 الشَّخْشِخَةُ - مہ - ہتھیار کی جھکار۔ کاغذ یا نئے کپڑے یا خشک چیز کی آواز۔
 شَخَصَ (ف) شَخُوصًا - الشَّيْءُ: بلند ہونا۔
 عَنِ قَوْمِهِ اَوْ مِنْ بَلَدٍ اِلَى بَلَدٍ - جانا۔ کوچ کرنا۔
 النِّهْمُ: واپس آنا۔ لَوْنًا۔
 التَّجْمُ: ستارہ کا طالع ہونا۔ السَّهْمُ: تیر کا نشانہ سے اوپر اور نکل جانا۔ الْجُرْخُ: سوجنا۔ درم کرنا۔ بَصْرَةٌ: ٹھنکی لگانا۔
 الْمَيْثُ بَصْرَةٌ و بَصْرَةٌ: میت کی نگاہ کا کھلا رہ جانا۔
 شَخِصَ - يَه: کسی امر کے لائق ہونے سے بے قرار ہونا۔
 شَخِصَ (ک) اشْخَاصَةً - موٹا ہونا۔
 شَخِصَ - الشَّيْءُ: تعین کرنا۔ تمیز کرنا اور اسی سے اطباء کے نزدیک شخصیں امراض ہے۔
 اشْخَصَهُ - بے آرام کرنا۔ بے قرار بنانا۔
 اشْخَصَ الزَّجْلُ: جانے کا وقت قریب قریب ہونا۔
 يَه: نسیب کرنا۔ لُغَةً الْمَنْطِقِي و اشْخَصَ اِلَيْهِ: گفتگو میں ترش روئی کرنا۔
 اِلَى قَوْمِهِ: واپس کرنا۔ لَوْنًا۔

الشَّخَابُ - تازہ دودھ۔
 الشَّخْبُ - مہ - خُون (الشَّخْبُ) دودھ کی دھار۔ واحد (الشَّخْبَةُ) ج شَخَابُ - الْأَشْخُوبُ - تمھن سے دودھ نکلنے کی آواز۔ ج اشْخَابُ۔
 دَوَّجٌ (شَخِيبٌ) خُون پھینکنے والی رگ۔
 الشَّخَابُ وَالشَّخُوبُ وَالشَّنْخُوبَةُ - پہاڑ کی چوٹی ج شَخَابِيْبٌ۔
 شَخَّتْ (ك) شُخُوبَةً - ڈبے جسم والا ہونا۔
 صفت (شَخَّتْ و شَخَّتْ) ج شَخَاتٌ - کما جاتا ہے۔ "هُوَ شَخَّتُ الْخُلُقِ" وہ ادنیٰ اخلاق والا ہے۔ و "هُوَ شَخَّتُ الْعَطَاءِ" وہ کم دام و دوش والا ہے۔ "هُوَ شَخَّتُ الْجَزَاةِ" وہ باریک ٹانگوں والا ہے۔
 شَخَّتَهُ - اليه - بچانا۔
 الشَّخْتُ وَالشَّخِيْتُ وَالشَّخِيْبُ وَالشَّخِيْبَةُ - بلند غماز۔
 الشَّخْتُورُ وَالشَّخْتُورَةُ - ڈوگی۔ جس میں ایک ہی آدمی سوار ہو۔
 شَخْرٌ (ض) شَخْرًا - حلق یا ناک سے آواز نکالنا۔
 شَخْرٌ (ض) شَخْرًا و شَخْرًا - الْفَرَسُ او الْجِمَازُ: گھوڑے کا ہنٹانا یا گدھے کا ریکٹنا۔
 شَخْرٌ - الْجَلْسُ: کجاہہ باندھنے کیلئے چالور کی پیٹھ سے ٹاٹ یا کھل اٹھانا۔
 التَّخْلَةُ: ٹوٹنے کے خوف سے گھوڑے کے گھونٹوں کو نشی پر رکھنا۔
 الشَّخْرُ - مہ - مِنَ الشَّيْبِ: ابتداء جوانی۔
 مِنَ الزَّجْلِ: کجاہہ کے اگلے اور پچھلے حصہ کی درمیانی جگہ۔
 الشَّخِيْرُ - مہ - پہاڑ کا وہ حصہ جو قدموں سے لگ کر گرے۔
 الشَّخِيْرُ - بہت خرابے لینے والا۔
 شَخْرٌ (ف) شَخْرًا - مضرب ہونا۔
 عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔
 بِالرُّوْحِ: نیزہ مارنا۔ يَنْهَمُ: آسانا اور نساؤ ڈالنا۔
 تَشَاخَرَ الْقَوْمُ: باہم بغض رکھنا۔

الشداد۔ تخت رواں۔ خیمہ۔ چھوٹا مکان۔
 شَدَقَ (ض) شَدَقًا۔ کھڑے کھڑے کاٹنا۔
 شَدِيقُ (ف) س) شَدَقًا۔ الفَرَسُ: گھوڑے کا
 کیلیں کرتا۔
 أَشَدَقُ اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔
 تَشَادَفَ۔ جھکتا۔
 الشَّدَفُ۔ ہم۔ رخسارے کا جھکاؤ۔ اونٹ کے
 سر کی پیچیدگی۔ تاریکی۔ کلابرج۔ شَدَقُوفُ۔
 الشَّدَفُ۔ لہاجری کوڑنے والا۔
 الشَّدَفَةُ۔ کھڑا (الشَّدَقُوفُ) ڈوبھی۔ چھماکل
 (جدید)
 الأَشْدَفُ۔ رخسارہ کے جھکاؤ والا۔ نشاط کے
 ساتھ چلنے والا اونٹ۔ بوئے ڈیل ڈول کا گھوڑا۔
 بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔ مَوْنَتُ شَدَقَاءِجِ
 شَدَقُ۔
 شَدِيقُ (س) شَدَقًا۔ چوڑے جڑے والا ہونا۔
 صفت (أَشْدَقُ) مَوْنَتُ (شَدَقَاءِجِ) شَدِيقُ۔
 تَشَدَّقُ۔ بکلف فصاحت ظاہر کرنے کے لئے
 پانچیس کھولنا۔ بالكلام وفیہ: بغیر احتیاط
 کے ہر قسم کی باتیں کرنا۔ لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا
 کرنا۔
 الشَّدِيقُ والشَّدِيقُ۔ جڑوا۔ شَدِيقُ الوَادِي:
 وادی کا کنارہ۔ ج) أَشْدَقُ وشَدِيقُ۔
 الأَشْدَقُ۔ زبان آور۔ بلیغ۔
 الشَّدِيقُ۔ ج) الوَادِي: کنارہ۔ ج) شَدِيقُ۔
 الشَّدَقَمُ والشَّدَقَمُ۔ چوڑے جڑے والا۔
 شیر۔
 الشَّدِيقَانِي۔ عِنْدَ التَّصَارِي: کاہن سے ایک
 درجہ کم والا پادری۔ ج) شَدَقَانِي (د) حَمِيلُ
 الشَّدَادِ كَوْنُهُ۔ بستر مغزیہ (جدید)
 الشَّدَوْدِ كَانُ۔ ہتھیار۔ ہتھیار کا سامان۔
 شَدَنُ (ن) شَدَقُوفًا۔ الظَّنْبِيُّ: قوی ہونا اور ماں
 سے بے نیاز ہونا (تمام کھرو اور اور سم والوں کے
 بچوں کے لئے مستعمل ہے)۔
 أَشْدَقَتِ الظَّنْبِيُّ: قوی بچنے والی ہونا۔ صفت
 (شَدَقَانِي) ج) تَشَادَقَانِي وَمَشَادَقَانِي۔
 الشَّدَنُ۔ ایک پودہ ہے جس کا پھول چینیلی کے
 مانند ہوتا ہے۔

”الْحُرُوفُ الشَّدِيدَةُ“ آٹھ ہیں جن کا مجموعہ
 ”اجدث طبقک“ ہے۔
 الأَشْدُ والأَشْدُ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ بَلَغَ
 أَشْدَهُ“ یعنی فلاں طاقت و قوت کے زمانہ کو پہنچ گیا
 اور یہ جمع ہے۔ ج) ا) کا واحد نہیں یا واحد ہے جو جمع
 کے وزن پر ہے۔
 المِشْدُ۔ ایک قسم کا کپڑا جس کو عورت اپنی کمر
 باندھتی ہے۔
 المِشْدُ۔ مضبوط چوپایوں والا۔
 المِشْدُوقُ۔ فاجیل۔ امور میں سختی کرنے والا۔
 شَدَخُ (ف) شَدَخًا۔ موٹا ہونا۔ صفت
 (شادخ)
 اِنْشَدَخَ۔ ٹانگوں کو پھیلا کر چیت لینا۔
 الشَّادِحُ۔ فَا۔ مِینَ الكَلَاءِ۔ وسیع سبز۔
 الأَشْدَخُ۔ چوڑا۔
 الشَّدْحَةُ والمِشْدَحُ۔ فراخی۔ کشادگی۔ کہا
 جاتا ہے ”لَكَ عِنْدَهُ شَدْحَةٌ أَوْ مِشْدَحٌ“
 تمہارے لئے اس میں مہماننش ہے۔
 شَدَخُ (ف) شَدَخًا۔ اعتدال سے بہت جانا
 الرَّاسُ: سر توڑنا۔ چکنا۔ الزَّجْلُ:
 گردن کٹنے کی جگہ پر مارنا۔ (شَدَخَتْ غَرَّةُ
 الفَرَسِ شَدَخًا وشَدَخًا) ماتھے کی سفیدی کا
 ناک تک پھیلنا۔ گھوڑے کو (أَشْدَخُ) کہتے ہیں۔
 شَدَخُ۔ الرَّاسُ: سر توڑنا۔ (تشدید مبالغہ کے
 لئے ہے)۔
 تَشَدَّخَ وَأَشْدَخَ۔ الرَّاسُ: سر توڑنا۔ کچلا جانا۔
 الشَّدَخُ۔ نا تمام پچھ جو آسانی سے گر جائے۔
 الشَّدْحَةُ۔ مِینَ التَّبَاتِ: نرم و نازک۔ تازہ
 نباتات۔
 الشَّادِخُ۔ فَا۔ چھوٹا جبکہ نرم و نازک ہو۔ غَلَامٌ
 شَادِخٌ: جوان لڑکا۔ أَمَوُ شَادِخٌ: اعتدال سے بنا
 ہو معاملہ۔
 الشَّادِخَةُ۔ الشَّادِخُ کا مَوْنَتُ۔ گھوڑے کے
 ماتھے کی سفیدی جو ناک تک پھیلی ہوئی ہو۔
 الأَشْدَخُ۔ شیر۔ مِینَ الخَيْلِ: ناک تک
 پھیلی ہوئی سفیدی والا گھوڑا۔ مَوْنَتُ شَدْحَاءِجِ
 شَدَخُ۔
 المِشْدَخُ۔ سف۔ گردن کٹنے کی جگہ۔

التَّهَارُ: بلند ہونا۔ عَصَدَةُ: قوی
 کرتا۔
 الشَّيْ: مضبوط کرتا۔ باندھنا۔ کسنا اور اسی
 سے ہے ”شَدَّ الرَّحَالَ“ اور یہ کنایہ ہے سفر سے
 عَمَلِي يَدِهِ: اعانت کرتا۔ تقویت پہنچانا۔
 اور کہا جاتا ہے ”لَا أَهْلِكَ شَدًّا وَلَا إِزْحَاءً“ یعنی
 میں کسی چیز پر قادر نہیں۔
 شَدُّ (ض ن) شَدًّا وشَدَّةً وشَدًّا عَلَيَّ
 العَدُوُّ: دشمن پر حملہ کرنا۔
 شَدُّ (ض) شَدَّةً۔ قوی ہونا۔
 شَدَّةً۔ قوی کرتا۔ شَدَّةً الضَّرْبُ: بہت مارنا
 عَلَيْهِ: سختی کرنا۔ الخَزْفُ: تشدید
 لگانا۔ الشَّيْ: مضبوط کرتا۔
 شَادَّةً۔ فِینَ الأَمْرِ: غالب ہونے کی کوشش
 کرتا۔ مقابلہ کرتا۔ جھگڑنا۔ سختی کرتا۔
 أَشَدُّ۔ عقل یا عمر کی پختگی کو پہنچانا۔ مضبوط چوپایہ
 والا ہونا۔
 تَشَدَّدَ۔ قوی ہونا۔ کسی کام میں سختی کرنا۔
 اِشْتَدَّ۔ قوی ہونا۔ فِی السَّيْرِ: تیز
 دوڑنا۔
 عَلَيَّ قَرْهَهُ فِی الحَزْبِ شَدَّةً: حملہ کرتا۔
 عَلَيْهِ المَرَضُ: تیز ہونا۔ بڑھنا۔
 تَشَادَّ الشَّيْ: مضبوط ہونا۔
 الشَّدَمُ۔ ہم۔ شَدُّ التَّهَارِ: دن چڑھنے کا وقت۔
 کہا جاتا ہے ”أَنَا نَأَشُدُّ التَّهَارَ وَفِی شَدِّ التَّهَارِ“
 وہ دن چڑھنے کے وقت ہمارے پاس آیا۔ اور
 ”شَدُّ الرَّحَالَ“ کنایہ ہے سفر سے۔
 الشَّدَّةُ۔ شَدًّا کا اسم مرؤ۔ لڑائی کا حملہ۔
 الشَّدَّةُ۔ اشتداد کا اسم ہے۔ سختی۔ سختی۔ ج)
 شَدَّدُ۔ والشَّدَّةُ: معیبت۔ ج) شَدَّ أَيْدِ شَدَّةً
 الارضُ: زمین کی سختی۔
 الشَّدِيُّ۔ سختی۔
 الشَّدِيدُ۔ ہمار۔ قوی۔ بلند۔ مضبوط۔ جھیل۔
 شیر۔ ج) أَشْدَاءُ وشَادِدٌ وشَدُّودٌ کہا جاتا ہے
 ”زَجَلٌ شَدِيدٌ العَيْنِ“ ایسا شخص جس پر نیند کا
 غلبہ نہ ہو۔ ”مِنْكَ شَدِيدُ الرَّاحَةِ“ تیز خوشبو
 والا مٹک۔
 الشَّدِيدَةُ الشَّدِيدُ کا مَوْنَتُ۔ ج) شَدَّادٌ۔ و

المُشَذَّرُ - شير-
 شَذَفَ (ن) شَذَفًا: كما جاتا ہے "مَا شَذَفْتُ
 مِنْهُ شَيْئًا" میں نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا
 (اس کا استعمال صرف نفی کے ساتھ ہی ہوتا
 ہے۔)
 شَذَوْتُ شَذْوَةً: اگلیوں سے پکڑنا۔
 الشذوق: کنگن۔
 الشذوق الشذقان والشذواق: شکاریا
 شامین۔
 الشذام: بچھو اور بھلاؤ تک۔ نمک۔
 الشذمان: بھیرا۔
 الشذمانة: تیز رفتار جہاز اور تہنی۔
 شَذَا يَشْدُو شَذْوًا: مکھ لگانا
 بِالخَيْرِ: معلوم کر کے سمجھانا ()
 وَأَشْدَى فُلَانًا: تکلیف دینا۔ وَأَشْدَاهُ عَنهُ:
 دور کرنا ہٹانا۔
 شَذَى تَشْدِيَةً: بِالخَيْرِ: معلوم کر کے
 سمجھانا۔
 الشذو: مکھ۔ مکھ کی خوشبو۔
 الشذأ: بو کی تیزی۔ تکلیف۔ بُرَأَى: نمک۔
 کھلی۔ مسواکوں کے درخت کا نام۔ کڑی کے
 گلے۔ کھسی۔ ایک قسم کی کشی۔ بھوک کی
 تیزی۔
 الشذأة: شذأ کا واحد۔ ج شذوات۔ قوت کا
 بقیہ۔ برائی چیز۔
 شَرَّ (ض ن س) شَرًّا وَشَرًّا وَشَرًّا: شریر
 ہونا۔ شرارت کرنا۔ صفت مذکر (شَرٌّ) و صفت
 مؤنث (شَرَّة) ج أشخار و شوار و أشراء۔
 شَرَّ (ن) شَرًّا: اللحم أو القوت: گوشت یا
 کپڑے کو خشک ہونے کے لیے دھوپ میں ڈالنا
 _____ فُلَانًا: بُرَأَى کی طرف نسبت کرنا۔ لوگوں
 میں مشہور کرنا۔ وحکارنا۔ أَشْرَأَ الشَّقَى: ظاہر کرنا۔
 شَاؤَةً: بھگڑنا۔
 تَشَارَأَ تَشَارَأًا: باہم بھگڑنا۔
 الشَّرَّ: مکھ۔ برائی۔ ج شَرُّوْءٌ: یہ ہر قسم کی بُرائی
 اور خطا کے لیے اسم جامع ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 شَرُّ النَّاسِ وَهُمْ شَرِّاؤُا وَشَرِّاؤُا وَشَرِّاؤُا وَهِيَ
 شَرَّةٌ أَوْ شَرٌّ نِسَاءً" وہ لوگوں میں بہت بڑا

الشذآن والشذآن: متفرق کنکراں وغیرہ۔
 شَذَانُ النَّاسِ: متفرق لوگ۔
 شَذَبَ (ن ض) شَذْبًا وَشَذَبَ: اللحاء:
 چھال چھیننا _____ الشَّقَى: کانا۔ شَذَبَ:
 وَشَذَبَ الشَّجَرَ: درخت کو چھانٹنا _____
 الْمَالِ: بکھیرنا۔ شَذَبَ عَنهُ: دلچ کرنا۔ ہٹانا۔
 شَذَبَهُ: دھکارنا۔
 تَشَذَبَ: ہٹنا۔ دور ہونا _____ القَوْمُ: متفرق
 ہونا۔
 الشذب: درخت کے گلے۔ متفرق کڑیاں۔
 حنکے۔ سامان خاند۔ کھائی ہوئی گھاس کا پتہ۔ کہا جاتا
 ہے "لَفِي الْأَرْضِ شَذَبٌ مِنَ الْكَلَاءِ" وغالہ
 الْأَشَذَبُ مِنَ الْعَسْكَرِ" ہر ایک پتہ کے معنی
 میں ہے۔ ج أَشَذَابُ:
 الشذبة: درخت کی کالی ہوئی ٹہنی۔
 الشاذب: فا۔ وطن سے دور۔
 الشوذب: مِنَ الرِّجَالِ: لمبا خوبصورت قد
 والا۔ ہر چیز کا عمدہ حصہ۔
 المشذب: شاخ تراش کا آلہ۔
 المشذب: مغم۔ کانٹوں سے صاف کیا ہوا تہ۔
 فَرَسٌ شَذَبٌ: لمبا گھوڑا۔ جس میں گوشت زیادہ
 نہ ہو۔
 شَذَّرَ: التَّظْمُ: مہر لگا کر جدا کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "شَذَّرَ كَلِمَةً بِشَغْرٍ" کلام میں شعرا داخل کرنا
 _____ بِفُلَانٍ: بدنام کرنا۔
 تَشَذَّرَ: بُرَأَى یا مقابلہ کے لئے تیار ہونا۔
 غضبناک ہونا۔ سبک ہونا اور کام کے لئے چست
 ہونا _____ دھکارنا _____ القَوْمُ: متفرق ہونا
 اور اپنی اپنی راہ لینا _____ القوم فی الحزب:
 حد سے گزرتا۔
 الشذو: سونے کا گلا جو کان سے نکلا جائے۔
 مہرہ جس سے لڑی میں موتیوں کو جدا کیا جائے۔
 چھوٹے موتی۔ واحد (الشذرة) ج شذرات
 وشذور۔ کہا جاتا ہے "تَفَرَّقُوا شَذَرَ مَذَرٍ
 وَشَذَرَ مَذَرٍ" وہ سب بکھر گئے اور ہر ایک نے اپنی
 راہ لی۔
 الشوذو: چادر۔ بے آستین کی تہیں۔ ورجل
 (شذرة) صاحب غیرت مرد۔

الشاذن: فا۔ جب مطلق بولا جائے تو ہرن کا پتہ
 مراد ہوتا ہے۔
 شَذَّةُ (ف) شَذَهَا: الرِّاسُ: سر پکڑنا۔ شَذَّةُ
 وَأَشْدَّةُ الرِّجْلِ: دہشت میں ڈالنا۔
 شَذَّةٌ: مدہوش ہونا۔
 إِشْدَهُوْا شَذَّةً: تہمیر ہونا۔
 الشذاهو والشذوه والشذوه والشذوه: حیرت۔
 دہشت۔
 المشاده: مشاغل۔ حیران و بے خود کر دینے
 والے معاملات۔
 شَذَا يَشْدُو شَذْوًا: الرِّجْلُ: گا کر شعر پڑھنا
 _____ الْإِبِلُ: حدی گا کرنا _____ الشغور:
 گانا اور سر نکالنا _____ مِنَ الْعِلْمِ شَيْئًا: کچھ
 حاصل کرنا۔ صفت (شاذ) ج شذأة وشاذون۔
 شذاه فُلَانًا او بِفُلَانٍ: تشبیہ دینا۔ شذًا
 شذوة: وہ اس کی چال چلا۔
 أَشْدَى إِشْدَاءً: گانے میں ماہر ہونا۔
 الشذأ: بقیہ قوت۔ گرمی۔ کھلی۔ مِنَ الشَّقَى:
 کسی چیز کی حد۔ کنارہ۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ مِنْهُ
 شَذًا" اس نے اس میں سے تھوڑا سا لیا۔ "لَمْ
 يَبْقَ مِنَ الصَّرِيضِ الْأَشْدَا" جبکہ قریب الموت
 ہو جائے۔
 الشذو: مکھ۔ بہت میں سے تھوڑا سا۔ کہا جاتا
 ہے "أَخَذُوا شَذْوًا مِنَ مَالِهِ" انہوں نے اس
 کے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا لیا۔
 الشاذ: چڑاسی (جدید)
 شَذَّ (ن ض) شَذًّا وَشَذًّا عَنِ الْجَمْعِ هُوَ
 أَوْ الْجَمَاعَةِ: علیحدہ ہونا۔ اکیلا ہونا _____
 الْقَوْلُ: مخالف قیاس ہونا۔ عَنِ الْأَصْوَلِ: مخالف
 قاعدہ ہونا۔ صفت (شاذ) ج شذاذ وشذاذ۔
 مؤنث شاذة ج شذوات والشذاذ مِنَ النَّاسِ:
 تھوڑے لوگ اور اسی سے ہے "جَاءَ وَ
 شَذَاذًا" یعنی تھوڑے لوگ آئے۔ وہ لوگ جو
 کسی قوم میں ہوں اور ان کے قبیلہ سے نہ ہوں۔
 شَذَاذًا لَهَا: مسافر لوگ۔
 شَذَّةُ (ن) شَذًّا وَشَذَّةً: شاذ کرنا۔
 أَشَذَّ: نادر بات کہنا _____ الشَّقَى: جدا کرنا۔
 شاذ کرنا۔

ہے اور اصل اس کی (أَشْرَبَ) ہے۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ ہمزہ کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے جیسے خرمیں۔

الشَّرْبَةُ - بڑائی - تیزی - جستی - غضب - سبکی - لالچ - حِرْوَةُ الشَّيْبَانِ - جوانی کی جستی - الشَّرْبَةُ - کمرہ - کہا جاتا ہے "مَا قُلْتُ ذَلِكَ لِشُرْبِكَ" میں نے تیرے کمرہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو نہیں کیا۔

الشَّرْوُ وَالشَّرَاؤُ - آگ کی چنگاری جو اڑے۔ واحد (شَرْوَةٌ وَشَرَاؤَةٌ)

الشَّرِيرُ - شرارت کرنے والا۔ جِ أَشْوَارٍ وَأَشْوَاءٍ - مؤنث شَرِيرَةٌ - الشَّرِيرُ - سمندر کا کنارہ۔ جِ أَشْوَرَةٌ -

الشَّرِيرُ - بہت شرارت کرنے والا۔ شیطان کا لقب۔ جِ شَرِيرٌ يُؤْرُونَ -

الإشْرَازَةُ - بیرو وغیرہ خشک کرنے کے لیے چٹائی۔ اونٹوں کا بنا ریوڑ۔ خشک گوشت کا ٹکڑا۔ جِ أَشَارِي -

الشَّرِيرَةُ - بڑی سوئی۔ الشَّرَانُ - بھگا۔ مچھری کا منہ ایک کیزا جو انسان کے منہ کے سامنے اڑتا ہے اور کاتا نہیں۔ واحد (شَرَانَةٌ)

شَرْبٌ (س) شَرْبًا وَشَرْبًا وَشَرْبًا وَمَشْرَبًا وَمَشْرَبًا وَمَشْرَبًا - پینا۔ گھونٹ لینا۔ سیراب ہونا۔ شَرْبُ الشَّيْبَانِ الدَّقِيقِ - کتاب ہے غلہ کی تیاری سے اور کہا جاتا ہے "أَكَلْ عَلَيْهِ الدَّهْنُ" و شَرْبٌ "یعنی ہلاک ہو گیا" و "أَكَلْ فَلَانٌ مَالِي" و شَرْبُهُ "یعنی ختم کر دیا۔

شَرْبٌ (س) شَرْبًا - پیسا ہونا۔ پیسا سے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ (ضد) شَرْبٌ بہ: کسی پر جموت ہونا۔

شَرْبٌ (ن) شَرْبًا - الكَلَامُ: کہنا۔

شَرْبَةٌ - پانی پلانا۔ شَرْبُ القَبْرَةِ: بنی ملک میں مٹی اور پانی ملنا تاکہ پانی خرگھوڑا رہے۔

قَضَبُ الزَّوْجِ: کھیت کے ڈھگل کا سیراب ہونا۔ الشَّيْبَانُ الدَّقِيقُ: خرگھوڑے کے دانوں میں گودا بھننا۔

أَشْرَبَ - پلانا۔ أَشْرَبَ الرَّجُلُ - پیسا ہونا۔

پیسا سے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ (ضد) المَلُونُ: گہرا رنگنا۔ الشَّرْبُ حُمْرَةٌ: کپڑے کے رنگ میں سرخی کو ملانا۔ بہ: کسی پر جموت ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَشْرَبَنِي مَالِي" أَشْرَبٌ "اس نے میرے متعلق ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کو میں نے نہیں کیا۔ الإِبِلُ: باندھنا۔ وَأَشْرَبَ حُبُّ فَلَانٍ اس کے دل میں فلاں کی محبت جاگزیں ہو گئی۔

شَارِبَةٌ مُشَارِبَةٌ وَشَرَابٌ - ساتھ پینا۔ تَشَارَبًا - ایک دوسرے کے ساتھ پینا۔

تَشَرَّبَ - الشَّرْبُ العَرَقُ - جذب کرنا۔ جِ شَرَابٌ - اشْتَشَرَبَ - لَوْنُهُ: تیز اور گہرا ہونا۔

إِشْرَابٌ لِلشَّيْءِ وَاللَّيْثِ: گردن اٹھا کر دیکھنا۔ اسم (الشَّرَابِيَّةُ) جیسے اِظْمَأْنٌ سے ظَمَأْنِيَّةُ -

الشَّرْبُ - مہ - شاربٌ - اسم فاعل کی جمع ہے۔

الشَّرْبُ - مہ - پینے کا پانی۔ پانی کا حصہ۔ گھاٹ۔ پینے کا وقت۔ جِ أَشْرَابٌ -

الشَّرْبَةُ - شَرْبٌ کا اسم مرہ۔ جو ایک مرتبہ پیا جا سکے۔

الشَّرْبَةُ: چہرے کی سرخی۔ کہا جاتا ہے "لھی وَجْهِي شَرْبَةٌ مِنْ حُمْرَةِ" اس کے چہرے میں سرخی ہے۔ سیراب ہونے کی مقدار پانی۔

الشَّرْبَةُ - بہت پینا۔ پیاس۔ گرمی کی شدت۔ جِ شَرْبٌ وَشَرْبَاتٌ -

مَاءٌ (شَرْوَبٌ وَشَرْيَبٌ) پینے کے لائق پانی۔ الشَّرْبُ: بہت پینے والا۔ پینے کا ساتھی جو شخص تمہارے ساتھ مل کر پانی لاتے یا تمہارے ساتھ پلایا جائے۔ اونٹوں کو گھاٹ پر لانے میں ساتھی۔

الشَّرْبَةُ: بے درخت کے گھاس والی زمین۔ وادی کا کنارہ۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے "مَنَازِلُ فَلَانٍ عَلَى شَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ" فلاں ہمیشہ ایک طریقہ پر رہا۔

الشَّرَابُ - ہر ایک پینے کی چیز۔ جِ أَشْرَبِيَّةُ -

الشَّرْبَةُ وَالشَّرْوَبُ وَالشَّرَابُ وَالشَّرِيْبَةُ -

بہت پینے والا۔

الشَّرَابَةُ - شراب کا مؤنث۔

عِنْدَ المَوْلَدَيْنِ تَرَكِي لَوْبِي وَنِيْرُو كَا مَهْدَا - جِ شَرَابِيْبُ - شَرْابَةُ الزَّوْجِي - ایک پودہ کا نام۔

الشَّرَابُ (ف) جِ شَرْبٌ (جیسے راکب جمع

زَكَاةً) جانوروں کی کزوری۔ شَارِبُ الرَّجُلِ: مومچھ دونوں جانب کے اعتبار سے تشبیہ لاتے ہیں اور "شَارِبَا الرَّجُلِ" کہتے ہیں اور اطراف و اجزاء کے اعتبار سے جمع "شَوَارِبُ الرَّجُلِ" ہوتے ہیں۔ الشَّوَارِبُ: گردن کی رگیں۔ گردن میں پانی گزرنے کی جگہیں۔

الشَّارِبَةُ - الشَّارِبُ کا مؤنث۔ جِ شَارِبَاتٌ وَشَوَارِبٌ: دریا کے کنارے رہنے والی قوم۔

الشَّرْوَبُ پانی پینے والے۔

الشَّوَابِيْءُ - سہ۔ بھجستی۔

المَشْرَبُ - پانی۔ پانی پینے کی جگہ۔ اور اب خراش لیس اور میلان کے معنی میں مستعمل ہے۔ جیسے "وَاقِفِي الأَمْوَالِ مَشْرَبَةٌ" معللہ اس کی خراش کے مطابق ہو گیا۔ جِ مَشْرَابٌ -

المَشْرَبَةُ وَالْمَشْرَبَةُ - نرم زمین جو ہمیشہ سرسبز رہے۔ پینے پلانے کا کمرہ۔ پینے کی جگہ۔ جِ مَشْرَابٌ - کہا جاتا ہے "عَلَامَةُ ذُو مَشْرَبَةٍ" پانی پلانے والا کہا جاتا ہے جو شخص اسے کھائے پانی زیادہ پئے۔

المَشْرَبَةُ - پانی پینے کا بہتر۔ جِ مَشْرَابٌ -

المَشْرَبُ - مہ۔ ہر وہ چیز جو پانی جائے۔

الشَّرَابِيَّةُ - سخت پھل والا۔ شیر۔

الشَّرْبَانُخُ - پڑمروہ ساپ کی چمتری۔

الشَّرْبِيْبُ - جھینڑا۔

شَرْيَبٌ - الشَّرْبُ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الشَّرْبِيْبِيْنُ - سردی کا منہ ایک درخت کا نام جس سے عمدہ قطران نکلتا ہے۔

شَرْبَتٌ (س) شَرْبًا وَاشْرَبْتُمْ - بَئِدُهُ: ہاتھ کا سردی کی وجہ سے سخت ہو کر پھلنا۔ شَرْبٌ الرَّجُلِ: سردی کی وجہ سے سخت ہو کر پھلنے ہوئے ہاتھ والا ہونا۔ صفت (شَرْبٌ) -

التَّغْلُ: جوڑے کا چھٹنا۔

الشَّرْبُ: ہر پانی بوسیدہ چیز۔

الشَّرْبُ: مِنَ الشَّيْوْفِ وَالْأَسْمَةِ: تیز لکوار

وہملا۔

الشَّرْبَةُ: پُرَاثَا جِ -

شَرْجٌ (ن) شَرْجًا - جموت ہونا۔ الشَّرْبُ: جمع کرنا۔ الشَّرَابُ بِالمَاءِ: بلونی

رکے۔ والأَمْزُ الْمَشْرُوعُ: وہ کام جس کو تم شروع کرو۔
 شَرْعَبَ الْأَيْدِيْمَ: لہا کانا۔
 الشَّرْعَبُ: لہا۔
 الشَّرْعِيَّةُ: ایک قسم کی چادر۔ لہا خوبصورت جسم والا۔
 الشَّرْعُوبُ: ایک قسم کی گھاس۔
 الشَّرْعَافُ: زنجبور کے ٹکڑے کا پوست۔
 الشَّرْعُوفُ: ایک قسم کی گھاس۔
 الشَّرْعُوعُ وَالشَّرْعُ: چھوٹا میزک۔
 الشَّرْعُوفُ: ایک قسم کی گھاس، چھوٹا میزک۔
 شَرْفَةُ (ن) شَرْفًا: کسی سے عزت و مرتبہ میں غالب ہونا۔ صفت مفعول (مَشْرُوفٌ) _____ الحَاطِطُ: دیوار میں نکلے ہونا۔
 شَرْفٌ (ک) شَرْفًا وَشَرْفًا: دین یا دنیا میں بلند مرتبہ ہونا۔ صاحب عزت ہونا۔ (شَرْفَتٌ النَّاقَةُ شَرْفًا): بوزھی ہونا۔
 شَرْفٌ (س) شَرْفًا: بلند ہونا۔
 شَرْفًا: شرافت پر فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔
 شَارَفَ الْمَكَانَ: چڑھنا _____ الشَّيْءُ: اوپر سے جھانکنا۔ قریب ہونا۔
 شَرْفَهُ: تعظیم کرنا۔ بزرگی دینا۔ عزت کرنا۔
 شَرْفَ الْبَيْتِ: نکلنے بنا _____ الْمَكَانَ: چڑھنا۔
 أَشْرَفَ: الشَّيْءُ: بلند ہونا۔ سیدھا کھڑا ہونا _____ الْمَكَانَ: چڑھنا _____ عَلَيْهِ: اوپر سے جھانکنا _____ لَكَ الشَّيْءُ: ممکن ہونا۔ قدرت و طاقت میں ہونا _____ عَلَيَّ الْمَوْتُ: قریب الموت ہونا _____ عَلَيْهِ: ڈرنا یا مہربانی کرنا۔
 أَشْرَفَتِ الْغَيْلُ: تیز دوڑنا _____ نَفْسُهُ عَلَيَّ الشَّيْءُ: جریں ہونا اور ہلاک ہونا۔
 تَشْرَفَ: الْبَيْتُ: نکلنے دار ہونا _____ الرَّجُلُ: عزت پانا _____ بِكَذَا: باعث عزت جانا _____ الْمَكَانَ: چڑھنا _____ الشَّيْءُ: ہاتھوں سے اڑ کر کے کسی چیز کی طرف نظر اٹھانے کے دیکھنا _____ لِلشَّيْءِ: جھانکنا _____ عَلَيَّ الشَّيْءُ: اوپر سے جھانکنا۔

بجایا۔ الشَّرْعَةُ: قطار بندہ کے شکار کرنے کا جال۔ شریعت۔ کھل۔ پانی کی طرف راستہ۔ عادت۔ ج شَرْعٌ شَرْعٌ وَشَرْعٌ: الشَّرْعَةُ: کشتی۔ ج أَشْرَاعُ: الشَّرْفِعُ: بہادر۔ عمدہ کتاں _____ مِنَ اللَّيْفِ: درخت جرمنا کی چھال کے کانٹے جو سخت ہو گئے ہوں۔
 الشَّرْفِعَةُ: طریقہ۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام۔ چوکھٹ۔ دریا کے کنارے رہنے والوں کے لیے گھاٹ۔ ج شَرَاعٍ: نَهْرُ الشَّرْفِعَةِ: دریا کے اردن۔
 الشَّارِعُ: اسم فاعل۔ مَوْثِقٌ شَارِعَةٌ: ج شَرْعٌ وَشُرُوعٌ وَشُرُوعٌ: کہا جاتا ہے "ابن شَرْعٌ وَشُرُوعٌ" پانی میں داخل ہونے والے اونٹ۔
 بَيْتٌ شَارِعٌ: وہ مکان جس کا دروازہ راستہ کی جانب ہو۔ وَالشَّارِعُ: ج شُرُوعٌ: سڑک، عام راستہ۔ رِمَاحٌ شَارِعَةٌ وَشُرُوعٌ: کسی کی جانب سیدھے کیے ہوئے نیزے۔ الشُّوَارِعُ مِنَ النَّجُومِ: غروب کے قریب ستارے۔
 أَنْفٌ (أَشْرَعٌ): لہے بانسروالی ناک۔
 الشُّرَاعُ: ہر وہ چیز جو بلند اور کھڑی کی جائے۔
 باویان۔ تانت جب تک کہ کمان پر لگی رہے۔ اونٹ کی گروں۔ کہا جاتا ہے "وَجَلَّ شُرُوعُ الْأَنْفِ" لہے بانسری ناک والا مرد۔ ج أَشْرِعَةٌ وَشُرْعٌ۔
 الشُّوَاعَةُ: دلیری۔
 الشُّرَاعُ: عمدہ کتاں بیچنے والا۔
 الشَّرْعِيُّ: مطابق شریعت۔
 الشَّرَائِعِيُّ: مِنَ الْإِبِلِ: لمبی گردن والا اونٹ۔
 الشَّرَائِعِيُّ: مِنَ الرِّمَاحِ: لمبے نیزے۔ ایک شخص کی جانب منسوب جس کا نام شرع تھا اور وہ نیزے بنایا کرتا تھا۔
 تَفْطِيَةُ الْإِشْرَاعِ: توریٹ کا پانچواں باب۔
 الْمَشْرُوعُ وَالْمَشْرُوعَةُ وَالْمَشْرُوعَةُ: دریا کے کنارے رہنے والوں کے لیے گھاٹ۔ ج مَشْرَاعٌ۔
 الْمَشْرُوعُ: مِنَ النَّبُوتِ: بلند مکان۔
 الْمَشْرُوعُ: سیدھا کیا ہوا۔ جس کو شریعت جائز

_____ الْبَيْتُ: گھر کا کھلے ہوئے راستہ پر ہونا۔
 _____ الْبَابُ إِلَى الطَّرِيقِ: دروازہ کو کھلے ہوئے راستہ کی جانب کرنا _____ الْحَبْلُ: رستی کی گرہ کو کھول کر دونوں کناروں کو کڑے وغیرہ میں ڈالنا۔
 _____ الشَّيْءُ: بہت بلند کرنا۔
 شَرْعٌ (ف) شَرْعًا: شَرْوَعًا: فِي الْمَاءِ: پانی میں داخل ہونا یا اس سے پینا۔
 _____ الزَّوَادُ: پانی کو منہ لگا کر پینا _____ الْعَاشِيَةَ: جانور کو پانی پر لے جانا _____ الْأَمْزُ: کام شروع کرنا _____ فِي الْأَمْزِ: کام میں مشغول ہونا _____ الرِّمَاحُ فَشَرْعَتْ هِيَ: نیزے کو کسی کی جانب سیدھا کرنا اور سیدھا ہونا۔ (لازمی و متعدي)
 الطَّرِيقُ: راستہ ظاہر ہونا _____ فَلَانٍ: کسی کو پالی پر لے جانا _____ فَلَانٍ عَلَيْنَا: قریب ہونا اور جھانکنا۔ شَرْعٌ يَنْصُرِبُ: مارنے لگانا۔ (افعال متاخر ہے۔)
 شَرْعٌ وَأَشْرَعٌ: الطَّرِيقُ: راستہ ظاہر کرنا۔
 _____ فِي الْمَاءِ: پانی میں داخل کرنا۔ شَرْعٌ الْحَبْلُ: رستی کی گرہ کھولنا۔ شَرْعٌ السَّفِينَةَ: کشتی میں باویان لگانا۔ أَشْرَعٌ بَابَهُ إِلَى أَوْعَلَى الطَّرِيقِ: راستہ کی طرف دروازہ کھولنا۔ أَشْرَعٌ عَلَيْهِ الزَّمْعُ: کسی کی جانب نیزہ سیدھا کرنا۔
 أَشْرَعُ الشَّيْءُ: بہت بلند کرنا۔
 إِشْرَعُ: الشَّرْفِعَةُ: قانون بنانا۔ شریعت جاری کرنا۔
 الشَّرْعُ: مع۔ اللہ کے مقرر کردہ احکام۔ اور کہا جاتا ہے "شَرْعُكَ مَا بَلَغَكَ الْمَحَلُّ" یعنی تمہارے لیے اتنا تو شر کافی ہے جو مقصد کی جگہ تک پہنچا دے۔ اور یہ اس شخص سے کہتے ہیں جس کو تمہارے پر قناعت کرنے کیلئے برا بھیج دیا کرتا ہو (_____ الشَّرْعُ وَالشَّرْعُ) مثل۔ برابر۔ کہا جاتا ہے "الْقَاسُ فِي هَذَا شَرْعٌ وَاجِدُوا هُمُ فِي هَذَا شَرْعٌ" یعنی لوگ اس میں برابر ہیں۔
 الشَّرْعُ: جوتے کا تسمہ۔
 الشَّرْعَةُ وَالشَّرْعَةُ: تانت۔ کہا جاتا ہے "مَضْرُوبًا عَلَيَّ الشَّرْعُ" انہوں نے تانت کو

ثَشْرَفٌ - القَوْمُ: ذی عزت لوگوں کا قتل کیا جاتا۔
 اِشْتَرَفَ - سیدھا کھڑا ہونا۔
 اِسْتَشْرَفَ - سیدھا کھڑا ہونا _____ الشَّيْءُ : ہاتھ کی آڑ کے نظر اٹھا کے دیکھنا۔ اِسْتَشْرَفَهُ حَقَقَهُ: ظلم کرنا۔ حق مار لینا _____ الشَّاءُ: عیوب سے سالم لینے کیلئے دیکھ بھال کرنا۔
 الشَّرْفُ - عِزَّت و بزرگی۔ شرافت _____ بلند مکان۔ ناک۔ جِ اَشْرَافٍ۔ شَرَفٌ البعير: کوبان۔ الشَّرْفُ: شریف۔ کہا جاتا ہے "هُوَ شَرَفٌ قَوْمِهِ وَ كَرَمُهُمْ" وہ قوم کا شریف ہے۔
 الشَّرْفَةُ: خاندانی شرافت۔
 الشَّرْفَةُ - مِنَ القَصْرِ: کنگرہ۔ جِ شَرَفٌ والشَّرْفَةُ مِنَ المَالِ: عمدہ مال اور کہا جاتا ہے "اِعْدُوْنَا زَانُوْنَاكُمْ شَرْفَةً" تمہاری ملاقات کو میں اپنے لئے باعث عزت سمجھتا ہوں۔
 الشَّرْفَةُ: شَرَفَاتٌ کا واحد۔ شَرَفَاتٌ ان ثلاث یا مربع برجوں کو کہتے ہیں جو دیوار کے بالائی حصہ میں ہوتی ہیں۔
 الشَّارِفُ - فا: غریب شرف حاصل کرنے والا۔ سَهْمٌ شَارِفٌ: پرانا تیر۔ حَنْ شَارِفٌ: پرانی شراب کا مٹکا _____ مِنَ الثُّوبِ: بوڑھی اونٹنی۔
 جِ شَرَفٌ وَ شَرَفٌ وَ شَرُوفٌ وَ شَرَفٌ: شَرَفٌ: شَارِفٌ کا مؤنث۔ بوڑھی اونٹنی۔
 جِ شَارِفَاتٌ وَ شَوَارِفٌ: الشَّوَارِفُ - شراب کے برتن۔ مٹکا وغیرہ۔
 الشَّارُوفُ: جھاڑو۔
 الشَّرِيفُ - شرف و عزت والا۔ جِ شَرَفَاءُ وَ اَشْرَافٌ مؤنث شَرِيفَةٌ: جِ شَرَايفٌ وَ شَرِيفَاتٌ حَارِكٌ شَرِيفٌ: بلند موٹھا۔
 اَشْرَافُ الْاِنْسَانِ: انسان کے ناک مکان۔
 الاَشْرَفُ: اسم تفضیل۔ چگاڑو۔ قصر اَشْرَفٌ: مؤنث شَرَفَاءُ۔ جِ شَرُوفٌ: کنگرہ داریا برہی والا محل۔ زَجَلٌ اَشْرَفٌ: بلند کاندھے والا مرد۔ مَنَكَبٌ اَشْرَفٌ: بلند موٹھا۔
 الشَّرَفَاءُ: اَشْرَفٌ کا مؤنث _____ مِنَ الاَذَانِ: لمباکان۔

المَشْرَفُ - مِنَ الْأَمَاكِنِ: بلند جگہ۔
 المَشْرُفُ - جھانکنے کی جگہ۔ جِ مَشَارِفُ مَشَارِفُ الْأَرْضِ: زمین کی بلند جگہیں۔
 المَشْرُوفِيَّةُ - عرب کے ان دیہات کی طرف منسوب جو مَشَارِفُ الشَّامِ کے نام سے موسوم ہیں اور اسی سے ہے الشُّيُوفُ المَشْرُوفِيَّةُ اور بقول بعض الشُّيُوفُ المَشْرُوفِيَّةُ بمن کے ایک علاقہ کی طرف منسوب ہیں۔ مَشَارِفُ الشَّامِ کی طرف نہیں۔
 المَشْتَشْرَفُ: بلند۔
 شَرَقٌ (ن) شَرَقًا: الشَّاءُ: بکری کے کان کو لمبائی میں چیرنا۔ صفت مفعول (شَرَقَاءُ) _____ الغَمَرُ: پھل توڑنا۔
 شَرَقَتْ (ن) شَرَقًا وَ شَرُوقًا: الشَّمْسُ: آفتاب طلوع ہونا _____ التَّخَلُّلُ: درخت خرابا کھجور کا گدر ہونا۔
 شَرَقٌ (س) شَرَقًا: برنیقہ: اچھو لگنا۔ شَرَقَتْ عَيْنُهُ: آنکھ کا سرخ ہونا _____ لَوْنُهُ: شرم کی وجہ سے سرخ ہونا _____ الجَرْحُ بِالذَّمِّ: زخموں کا خون سے بھرنا _____ الذَّمُّ فِي عَيْنِهِ: آنکھ میں خون ظاہر ہونا _____ المَوْضِعُ بِالْهَلْبَةِ: جگہ کا لوگوں سے بھر کر تنگ ہونا _____ الشَّمْسُ: آفتاب کا ذوبے کے قریب ہونا _____ الشَّيْءُ: مخلوق ہونا _____ الْأَرْضُ: پانی جاری ہونے کے ناقابل ہونا _____ الشَّاءُ: لمبائی میں چرے ہوئے کان والی ہونا۔
 شَرَقٌ - مشرق کی طرف متوجہ ہونا۔ چکدار خوبصورت چہرے والا ہونا _____ اللَحْمُ: گوشت کے ٹکڑے کرنا اور دھوپ میں خشک کرنا۔
 _____ البِنَاءُ: چوڑے وغیرہ سے لینا _____ الشَّيْءُ بِالزَّعْفَرَانِ: کسی چیز کو زعفران سے رنگنا۔
 اَشْرَقَتْ: الشَّمْسُ: آفتاب کا طلوع ہونا۔
 چمکنا۔ اَشْرَقَ وَجْهُهُ: چمکدار ہونا _____ المَكَانُ: سورج کی چمک سے روشن ہونا۔
 _____ الزَّجَلُ: طلوع آفتاب کے وقت داخل ہونا۔ اَشْرَقَتْ الشَّمْسُ المَكَانَ: روشن کرنا۔
 الثُّوبُ فِي الصَّنْعِ: گہرا رنگنا۔ اَشْرَقَهُ بِرَيْقِهِ: اچھو لگوانا _____ التَّخَلُّلُ: درخت خرابا کھجور کا

گد رہنا۔
 تَشَرَّقَ - دھوپ میں بیٹھنا۔ دھوپ کھانا۔
 اِنْتَشَرَقَتْ - القَوْمُ: مکان کا پھینا۔
 اِشْرُوزَتْ اِشْرُوزًا: الغَيْثُ بِالذَّمْعِ: آسوں سے ڈیرانا۔ سرخ ہونا۔
 الشَّرْقُ - مہ۔ آفتاب طلوع ہونے کی جگہ۔
 پھین اور اسی سے ہے "مَا دَخَلَ شَرْقٌ لِمِى شَيْءٌ" میرے منہ کے شکاف میں کچھ داخل نہیں ہوا۔ جِ اَشْرَاقٌ (_____ وَالشَّرْقُ) روشنی جو دروازے کی دروازے سے داخل ہو۔
 الشَّرْقُ - مہ۔ آفتاب۔
 الشَّرْقَةُ: شَرَقٌ کا اسم مرہ۔ تم کہتے ہو "أَخَذْتُهُ شَرْقَةً كَأَذِيْمُوتٍ مِنْهَا" اس کو اچھو لگ گیا جس سے وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔
 جاڑے کے زمانہ میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ (_____ وَالشَّرْقَةُ) آفتاب جبکہ طلوع ہو۔
 الشَّرِيقُ - آفتاب جبکہ طلوع ہو۔ خوبصورت لڑکا۔ جِ شَرْقُ۔
 التَّشْرِيقُ - مہ۔ اَيَّامُ التَّشْرِيقِ - عید الاضحیٰ کے بعد تین دن۔ اس لیے کہ ان دنوں میں قربانی کا گوشت خشک کیا جاتا ہے۔ التَّشْرِيقُ: عید کی نماز اس لیے کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔
 الشَّارِقُ - فا: آفتاب بوقت طلوع۔ کہتے ہیں "لَا اَكْلِمَكَ مَا دَخَلَ شَارِقٌ" میں تم سے گفتگو نہیں کروں گا جب تک آفتاب طلوع ہو اور کبھی آفتاب کے علاوہ ستاروں پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہماڑو وغیرہ کی شرقی جانب۔ جِ شَرْقُ۔
 الشَّارُوقُ: چارواکھلا ہوا۔
 المَشْرُوقُ وَ المَشْرُوقُ وَ المَشْرُوقُ: طلوع آفتاب کی جگہ یا سمت۔ جِ مَشَارِقُ۔
 المَشْرِقَةُ وَ المَشْرِقَةُ وَ المَشْرِقَةُ وَ المِشْرَاقُ وَ المِشْرِيقُ: جاڑے کے زمانہ میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ۔ مِشْرِيقُ البَابِ: دروازے کی دروازے میں سے طلوع آفتاب کے وقت روشنی پڑے۔
 المِشْرَاقُ: وہ شخص جس کی عادت ہو کہ دوسرے کو اچھو لگنے میں مبتلا کر دے۔

وَعَلَيْهِ: بنت حریص ہونا۔ صفت (شرہ وشرہان)
الشَّرْهَاءُ مِنَ الْمَيْمِينِ: خشک سال۔
شَرْهَفٌ: الصَّبِيُّ: بچہ کو عمدہ غذا دینا۔
الشَّرْوُ وَالشَّرْوُ: شرم۔
الشَّرْوَالُ: سروال میں ایک لغت ہے۔ بمعنی پاجامہ۔

شَرِي يَشْرِي شِرَاءً وَشِرَى: الشَّيْءُ: خریدنا یا بیچنا۔ الشَّيْءُ أَوْ التَّوْبُ: دھوپ میں خشک ہونے کیلئے ڈالنا۔ يَنْفَعُهُ عَنْ قَوْمِهِ آگے بڑھ کر قوم کی طرف سے لڑنا۔ بادشاہ کے سامنے قوم کی نمائندگی کرنا۔
ه: غصلا کرنا۔ غمگین کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَ بِهِ مَشَارَهًا" اس نے اس کے ساتھ وہ فعل کیا جس نے اسے غمگین کیا۔ اللّٰهُ فَلَانًا: بچی اچھلنے کی تیاری میں مبتلا ہونا۔

شَرِي يَشْرِي شِرَى: الشَّرِي: بھلی کا چمکانا۔ زَمَامٌ الدَّابَّةِ: بہت زیادہ بلنا۔ الرَّجُلُ: غصبتاک ہونا۔ اصرار کرنا۔ الْجِلْدُ: جسم پر بچی اچھلنا۔ صفت (شر)۔ الشَّرِي يَنْتَهِمُ: بڑائی چھیلنا۔ الْفَرَسُ فِي سَبْرِهِ: تیز دوڑنا۔ الْفَرَسُ فِي لِحَامِهِ وَالْبَيْتُ فِي زَمَامِهِ: کھینچنا۔
أَشْرَى: الزَّمَامُ: حرکت دینا۔ الشَّرِي: جھکانا۔ الْحَوْضُ: حوض کو بھرنا۔ الشَّرِي: بھلی کا تیز چمکانا۔ بھڑکانا۔ الْقَوْمُ: خارجی جیسا ہونا یعنی طاعت امام سے نکل جانا۔

شَرِي: اللِّحْمُ أَوْ التَّوْبُ وَتَحْوُهُمَا: گوشت یا کپڑے کو دھوپ میں ڈالنا۔
شَارَى مَشَارَةً وَشِرَاءً الرَّجُلُ: خرید و فروخت کرنا۔ بھڑا کرنا۔
إَشْرَى: خریدنا۔ بیچنا۔
تَشَارَى تَشَارَةً الرَّجُلَانِ: باہم غصبتاک ہونا۔
تَشْرَى تَشْرَى: متفرق ہونا۔ خوارج میں سے ہونا۔
إِسْتَشْرَى إِشْرَاءً الْفَرَسُ فِي سَبْرِهِ:

جس کے معانی بہت ہوں جیسے لفظ عین۔ رَجُلٌ مُشْتَرِكٌ: غمگین آدمی کی طرح خود بخود باتیں کرنے والا۔
شَرْمٌ (ض) شَرْمًا: الشَّيْءُ: بھاڑنا۔ الْأَنْفُ: ناک کا بائیں کانا۔ الشَّرِيذَةُ: ٹرید کو کناروں سے کھانا۔ لِفْلَانٌ مِنْ مَالِهِ: تھوڑا سا دینا۔
شَرِمٌ (س) شَرْمًا: کٹی ہوئی ناک والا ہونا۔ صفت (اشوم) مونت شرماء ج شوم۔
شَرْمَةٌ: بھاڑنا۔ حیرنا۔ کلوے کلوے کرنا۔
تَشْرَمٌ وَأَنْشَرَمٌ: چھٹنا۔ کلوے کلوے ہونا۔
شَرْمُ الصَّيْدِ: شکار کا زخمی ہو کر بھاگانا۔
الشَّرَامُ: قاتلانہ کے گوشہ کو چھیدنے والا تیز۔
الشَّرْمُ: مہ۔ کھاری۔ سمندر کے پانی کا گہرا حصہ۔ ایک قسم کا درخت۔ ج شَرْمٌ۔
الشَّرْمَحُ: قوی و لبا۔ ج شَرْمَحٌ وَشَرْمَحَةٌ۔

الشَّرْمَحِيُّ: توانا قوی۔
الشَّرْمَحُ: لبا۔
شَرْنٌ (س) شَرْنَا: الصَّخْرُ: چٹان کا پھٹنا۔
الشَّرْنُ: شکاف۔
الشَّرْنُوثُ وَالشَّرْنُبُدُ: موٹے اور سخت ہاتھوں والا۔ شیر۔
الشَّرْنُوبِيُّ: ایک پرندہ۔
جَمَلٌ شَرْنَانٌ: موٹی اور لمبی گردن والا اونٹ۔
الشَّرْنُوقُ: مینڈک۔
شَرْنَفٌ: الزَّرْعُ: کھیت کے بڑھے ہوئے پتوں کو کھانا۔

الشَّرْنَأَفُ: کھیتی کے بڑھے ہوئے پتے جو کھیتی کے لیے مضر ہیں۔
الشَّرْنَفْحُ: ہلکے قدم والا۔
شَرْنَقُ الشَّيْءِ: کھانا۔
الشَّرَانِقُ: سانپ کی کینچل جس کو چھوڑ دے۔
وَالشَّرَانِقُ عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ: ریشم کے کیڑے کا کویا واحد (شَرْنَقَةٌ) اس کو "فِيَالِح" بھی کہتے ہیں جس کا واحد "فِيَالِحَةٌ" ہے۔ "بِز" ضلج" کہتے ہیں جس کا واحد "ضَلْحَةٌ" ہے۔
شِرَةٌ (س) شَرَهَا وَشَرَاهَةً: إِلَى الطَّعَامِ

المُشْرَقُ: منہ۔ چونہ رکھ سے پلٹ کر گیا ہوا۔
الشَّرْفَرَقِيُّ وَالشَّرْفَرَقِيُّ وَالشَّرْفَرَقِيُّ وَالشَّرْفَرَقِيُّ: ایک چھوٹا پرندہ جس کو "أَحْبِيل" بھی کہتے ہیں اور عوام اس کو "شَفْرُق" کہتے ہیں۔
شَرِكْتُ (س) شَرِكًا: التَّغَلُّ: تسم لٹوانا۔
شَرِكَةٌ (س) شَرِكًا وَشَرِكًا وَشَرِكَةٌ وَشَرِكَةٌ: شریک ہونا۔
شَرِكُ التَّغَلُّ: جو تسم میں تسم لگانا۔
أَشْرِكُهُ: فِي أَمْرِهِ: کام میں شریک بنانا۔
أَشْرِكُ بِاللَّهِ: شریک ٹھہرانا۔ شرک کرنا۔ صفت (مُشْرِكٌ وَشَرِيكِيٌّ) اور اسم (المُشْرِكُ)۔
التَّغَلُّ: جو تسم میں تسم لگانا۔
شَارِكَةٌ وَتَشَارِكًا: باہم شریک ہونا۔

إِشْرَكَ الْأَمْرُ: مشتبہ ہونا۔ إِشْرَكَ الْقَوْمُ فِي كَذَا: باہم شریک ہونا۔
الشَّرِكُ: شَرِكٌ وَأَشْرَكَ كَأَسْمٍ: شریک حصہ۔ اور اسی سے ہے "بَيْعُ شَرِكٍ مِنْ دَارِهِ" اس کے گھر کا ایک حصہ بیچا گیا۔ ج أَشْرَكَ۔
الشَّرِكَةُ: مہ۔ شریک کا حصہ۔ دو یا دو سے زائد حصوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ایک دوسرے سے متوازن ہوں اور عقدر بھی بولا جاتا ہے۔ اگر چہ یہ اختلاف نہ ہو۔

الشَّرِكُ: جال۔ پھندا۔ ج شَرِكٌ وَأَشْرَكَ۔ راستہ پر جانوروں کے قدموں کے نشانات۔ واحد (شَرِكَةٌ)۔
الشَّرِيكُ: جوتے کا تسم جو پشت قدم پر پڑے۔ زمین پر گھاس کی ایک پٹی۔ ج أَشْرَكَ وَشَرِكٌ۔
الشَّرِيكِيُّ وَالشَّرِيكِيُّ: تیز چال اور کہا جاتا ہے "أَطْلَمَةُ نَظْمًا شَرِيكِيًّا" اس نے اس کو جلدی جلدی پیانے طماچے مارے۔

الشَّرِيكُ: ساجھی۔ شریک۔ ج شَرِيكٌ وَأَشْرَكَ: مونت شَرِيكَةٌ ج شَرِيكٌ۔
المُشْرِكُ: ساجھی۔ حصہ دار۔
المُشْرِكُ: منہ۔ جس میں دو یا دو سے زائد شریک ہوں۔ کہا جاتا ہے "ظَرْفِيٌّ مُشْرِكٌ وَزَائِيٌّ مُشْرِكٌ وَأَمْرٌ مُشْرِكٌ" لفظ مُشْرِكٌ:

شزوزا: تازہ ہوا کا ہوا سوت۔
 الشزوز والشزوة: آگہ کی سرخی۔
 الأشزوز: سرخ۔ عین شزوزاء: غصہ کی وجہ سے سرخ آگہ۔
 شزوز (س) شزوزا: الرجل: بخت ہونا۔
 شزوز: الشئ: سخت ہونا۔ و شوار ہونا۔
 لہ فی الخوضمة: جھگڑے میں سختی برتا۔
 للشفر: سفر کی تیار کرنا۔ سامان کرنا۔
 شزوزا و شزوزا: الرجل: بچھاڑنا۔
 الشاة: ذبح کرنے کے لیے لگانا۔
 الشزوز: جو سرغیرہ کھینے کا مہرہ۔
 الشزوز والشزوز: سختی۔ جانب دوری۔ زمین کی سختی۔ من العیش: زندگی کی سختی۔
 الشزوز: جو سرغیرہ کھینے کا مہرہ۔
 الشزوزة: من النساء: بخیل عورت۔
 الشزوزة: سختی۔
 شزوزا و شزوزا: بلند ہونا۔
 شس (ض) شسوشا: الشئ: خشک ہونا۔
 الشاس: لاغر، ضعیف و خشک۔
 الشس: سخت زمین جو ایک پتھر کی طرح معلوم ہو۔ ج شساس و شسوس و شسینس۔
 شسب (س) و شسب (ک) شسبنا و شسوبا: خشک و لاغر ہونا۔ صفت (شاسب) ج شسب۔
 الشسب و الشسینب: من القیس: مکان جس کی کڑی پٹی ہو۔
 الشسوب: من اللوق: اونٹنی جس کا پتہ سردی میں مرجائے اور پھر دودھ نہ دے۔
 شسع (ف) شسعاً و شسوعاً: المنزل: دور ہونا۔ صفت (شسوع) ج شسع و (شسابع) شسعاً و شسعاً و شسعاً۔
 التغل: جوتے کے لیے تسمہ بنانا۔
 الشسع: الشئ: دور کرنا۔
 شسع (س) شسعاً: التغل: جوتے کا تسمہ ٹوٹنا۔
 الفزوس: گھوڑے کے غنیہ اور رباعیہ دائلوں کے درمیان فاصلہ ہونا۔
 بہ: دور کرنا۔

ایک قسم کا پرندہ۔
 شزوز: الزرع: کھیت کے برھے ہوئے مسخر تپوں کو کوٹنا۔
 الشزوزا: کھیتی کے برھے ہوئے پتے جو مسخر ہوں۔
 شزوز (ض) شزوزة: بہت خشک ہونا۔ صفت (شزوز) و شزوز (شزوز)۔
 شزوز (ن) و شزوز (ک) شزوزا و شزوزا: کھور ہونا یا لاغر و خشک ہونا۔ صفت (شزوز) کہا جاتا ہے "رجل شاحب شزوز" رنگ بدلا ہوا لاغر و خشک مرد۔ ج شزوز و شزوزا۔
 شزوز: الفزوس: گھوڑے کو لاغر کرنا۔ چھریا بنانا۔
 شزوز: القوم علی الماء و غیرہ: اپنے حصہ کا پتھر ہونا۔ کہا جاتا ہے "نہم متشازون" وہ لوگ اپنے حصہ کا انتظار کر رہے ہیں۔
 الشزوزة: اسم مرآة: کمان جو نہ نئی ہو نہ پرانی۔
 الشزوزة من الأبن: دہلی پٹی لگہی۔
 الشزوزة: فرصت۔ کہا جاتا ہے "فصفت شزوزة" اس کی فرصت کا موقع نکل گیا۔
 الشزوز: کڑی جس کی اصلاح ابھی نہ ہوئی ہو۔ کمان جو نہ نئی ہو نہ پرانی۔ ج شزوز۔
 الشزوز: علامت۔
 شزوز (ض) شزوزا: الرجل والیہ: غصہ میں ترچی نظر سے دیکھنا۔ فلاناً: دائیں بائیں سے نیزہ مارنا۔ نظریہ لگانا۔
 شزوز (ن ض) شزوزا و استشزوز: الحبل: رسی بننا۔ استشزوز الحبل: رسی کا بٹ جانا۔
 استشزوز الشئ: بلند کرنا۔ الشئ: بلند ہونا۔
 أشزوزة: اللہ: ایسی مصیبت میں پھنسانا جس سے رہائی ممکن نہ ہو۔
 شزوز: غضبناک ہونا۔ للقتال: آمادہ جنگ ہونا۔
 شازوزة و شزازوزة: دشمنی کرنا۔
 شزازوز القوم: ترچی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھنا۔
 الشزوز: معہ: سختی۔ و شوار: کہا جاتا ہے "غزوز"

تیز دوڑنا۔ الرجل فی الأمر: اصرار کرنا۔
 استشزوز الأمر: بڑا اور دشوار ہونا۔
 الرجل: غضبناک ہونا۔
 استشزوزی: استشزوزاء: مضطرب ہونا۔
 الشزوزی: اندر آن۔ عرب کہا کرتے تھے۔
 "إفلاقن ظعمان أزی و شزوزی" یعنی فلاں بیٹھا بھی ہے اور کڑوا بھی۔ درخت خرما جو ج سے آگا ہو۔ واحد (شزوزی)۔
 الشزوزاء: ج أشزوزة و (الشزوزی) خرید و فروخت۔
 الشزوزاء: طرف۔ جانب۔
 الشزوزی: پتی اچھلنے کی بیماری۔ پھاڑ۔ راستہ۔ طرف۔ جانب۔ ج أشزوزاء: کہا جاتا ہے "ذخلوا أشزوزاء الحرم" وہ لوگ حرم کے اطراف میں داخل ہوئے۔ الشزوزی: فرات کی جانب شیروں کے رہنے کی ایک جگہ جس کو بطور مثال کے کہا کرتے ہیں (ج و الشزوزاء) رومی مال یا عمدہ مال۔ کہا جاتا ہے "ایل شزوزاء" یعنی عمدہ اونٹ۔
 الشزوزی: من الخیل: پسندیدہ۔ رفتار میں اتنا کو پچھا ہوا۔
 الشزوزة: الشزوزی کا مونت۔ طریقہ۔ طبیعت۔ روش۔ وہ عورت جو ہمیشہ لڑی جتے۔
 الشزوزی: مثل یہی لفظ واحد تشبیہ جمع مذکر مونت سب کے لیے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "هو وھی وھما وھم وھن شزوزا" یعنی تمہارے مثل ہیں اور کہا جاتا ہے "إنه لا یمنلک شزوزی تغیر" وہ تغیر کی برابر کسی چیز کا مالک نہیں۔ تغیر کے لیے بطور مثال کے بولا کرتے ہیں۔ اور تغیر اس گڑھے کو کہتے ہیں جو کھجور کی تنھلی میں ہوتا ہے۔
 الشزوزیان: ایک درخت جس کی کڑی سے مکان بناتے ہیں۔ اچھلنے والی رگ جس میں خون دوڑتا ہے۔ ج شزوزین۔
 الشزوزیانات: جسم کی باریک رگیں۔
 الشزوزی: اسم فاعل۔ ج شزوزاء۔ زمانہ حال کے علماء اس کلمہ کو کبھی پر دلالت کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ الشزوزاء: خوارج۔
 الشزوزی: قا۔ خریدار۔ ایک سیارہ کا نام۔

ششب + شصب

شصب + شط

شط

_____ فِي سَلْعِهِ: حد سے تجاوز کرنا اور بیش قیمت کرنا۔

أَشْطَأَ إِشْطَاظًا وَإِشْطَظَ إِشْطِظَاظًا: زیادتی کرنا۔ حد سے تجاوز کرنا۔ حق سے دور جا پڑنا۔ عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔

شَطَطَ: زیادتی میں مبالغہ کرنا۔ شَاظًا: زیادتی کرنے میں مقابلہ کرنا۔

الشُّط: صبر و ریاضت کا کنارہ۔ ج شَطُوط و شَطَان: کوہان کی ایک جانب۔ ج شَطُوط۔ الشُّطَّة: اسم مرہ۔ جَارِيَةٌ شَطَّةٌ: سڈول بدن والی اونٹنی۔

الشُّطَّةُ وَالشُّطَاظَةُ وَالشُّطَاظُ وَالشُّطَاظُ: دوری۔ الشُّطَاظُ وَالشُّطَاظُ: قدر و قامت کی خوبصورتی اور استعمال۔

الشُّطَاظُ: فَارِجٌ شَاظٌ: سڈول بدن والا مرد۔ مَوْنَتُ شَاظًا:۔

شَطَأَ (ف) شَطَأًا وَشَطُوءًا: کنارہ پر چلنا۔ الدَّابَّةُ بِالْحَمَلِ: جانور پر بوجھ لادنا۔

فَلَانًا: مغلوب کرنا۔ الْأُمُّ بِالْوَلَدِ: بچہ گرا دینا (وَأَشْطَأَ الزَّرْعُ: کھیتی میں خوش لگانا۔ اشْطَظَ الشَّجَرُ بَعْضُوه: درخت میں نشی لگانا۔ اشْطَأَ الرَّجُلُ: زکام والا ہونا۔ اشْطَأَ الْوَادِي: دونوں کناروں پر ہٹا۔ کہتے ہیں

”بَلْنَا الْوَادِي كَذَا الْوَجْدَ نَاهُ مُشْطَا“ ہم فلاں وادی کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کو دونوں کناروں سے بہتا ہوا پایا۔ شَطَأَ تَشْطِيطًا: التَهَرُّ: دونوں کناروں پر ہٹنا۔ شَاظًا: ایک دوسرے کے ساتھ دریا کے کنارہ پر چلنا۔

الشُّطَاظُ: کنارہ۔ ج شَطُوءٌ (وَالشُّطَاظُ) کھیتی کے پتے یا خوشہ۔ درخت خرمائے پودے۔

مِنَ الشَّجَرِ: شاخیں جو درخت کی جڑ میں نکل آئیں۔ ج أَشْطَاءُ: الشُّطَاظَةُ: زکام۔ الشَّاطِئِينَ: فَارِجٌ مِنَ التَّهَرُّ: جانب۔ تم کہتے ہو ”شَاظِي الْأَوْدِيَّةِ“ اس کی جمع نہیں آتی۔

مِنَ الْبَحْرِ: کنارہ۔ ج شَوَاطِي

أَنَارًا۔

أَشْصَبَ: اللُّهُ عَيْشُهُ: ننگ گزران کرنا۔ الشُّصْبُ: سختی۔ قَطُ: خشک سالی۔ حصہ۔ ج أَشْصَابٌ۔

الشُّصْبُ وَالشُّصْبُ: خشکی۔ الشُّصْبُ: کھال آڑی ہوئی بکری۔ عَيْشٌ (شُصْبٌ) و شَوَارِبُ: گزران زندگی۔ الشُّصْبُ: حصہ۔ مسافر۔

الشُّصْبِيَّةُ: سختی و خشک سالی۔ کنوئیں کی گرائی۔ ج شُصَابٌ: الشُّصَابُ: پالان کی لکڑی۔ الشُّصَابُ: قصاب۔

الشُّصْبَانُ: چوٹیا یا اس کا سوراخ جنوں کا ایک قبیلہ۔ شيطان کا نام۔

شَصْرَ (ن) شَصْرًا: الشُّوْبُ: کپڑے کو ڈور ڈور سینا۔ لَكَرُوا لَنَا _____ فَلَانًا بِالزَّمْعِ: کسی کو نیزہ مارنا۔ ه: الشُّوْبُ: بیل کا ٹینگ مارنا۔

الشُّصْرُ: ہرن کا بچہ جبکہ قوی ہو جائے اور حرکت کرنے لگے۔ مَوْنَتُ شُصْرَةٍ: ایک چھوٹا پردہ۔ ج أَشْصَارٌ۔

الشُّصَاوُ: فَارِجٌ مِنَ الطَّبَايِ: ہرن کا بچہ جبکہ قوی ہو جائے اور حرکت کرنے لگے۔ مَوْنَتُ شَاصِرَةٍ ج شَوَاصِرُ: درختوں کیلئے ایک جال۔

الشُّوَصْرُ: مِنَ الطَّبَايِ: ہرن کا بچہ جبکہ قوی ہو جائے اور حرکت کرنے لگے۔

الشُّصِيْرُ: کانٹے کی چھین۔ شُصَا يَشُصُو شُصُوًا وَشُصِي يَشُصِي شُصِيًا: البَصْرُ: نگاہ کا پتھرا جانا _____

السَّحَابُ: بادل کا بلند ہونا _____ الْقَوِيَّةُ: منگ کا خوب اچھی طرح بھر جانا _____ المَيْتُ: میت کے ہاتھ پیروں کا اٹھ جانا۔ کہا جاتا ہے ”شُصَابِرُ جِلْدِهِ“ اس نے اپنی ٹانگ اٹھائی۔ أَشْصِي بَصْرَةً: کھلی نگاہ۔ نگاہ اٹھانا۔

الشُّصُو: سختی۔ مسواک۔ شَطَّ (ض ن) شَطًا وَشَطُوطًا: دور ہونا۔ فَلَانًا: دور کرنا۔ ظلم کرنا۔

شَطَّ (ض) شَطَطًا: زیادتی کرنا۔ حق سے دور ہو جانا _____ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَحَكِيمِهِ: ظلم کرنا

_____ بِه: دور کرنا۔

الشُّبْعُ: جوتی کا تہہ۔ کہا جاتا ہے ”أُولَى مِنْ الشُّبْعِ“ جوتی کے تہہ سے بھی قریب۔ ننگ زمین۔ کسی جگہ کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے ”تَوَلَّى بِشْبَعٍ مِنَ الْوَادِي“ وہ وادی کے کنارے پر اُتر۔ تھوڑا مال۔ زیادہ مال (ضد) اور کہا جاتا ہے ”هُوَ شِبْعٌ مَالٍ“ وہ مال کا انتظام کرنے والا ہے۔ ج أَشْبَاعٌ۔

شَسَفَ (ن) شَسْفًا (ك) شَسُوفًا شَسَاةً وَشَسَاةً: خشک و لاغر ہونا۔ صفت (شَايِسٌ وَشَسِيْفٌ) الشُّسْفُ: خشک روٹی کی لکڑی۔

الشُّسْفُ: پکی کھجور چیر کر خشک کی ہوئی۔ الشُّسْفُ: وہ شخص جو لاغری کی وجہ سے خشک ہو چلا ہو۔ الشُّوْبُ: بچھو۔ جوں۔

شَصَّتْ (س ض) شُصُوًا وَشُصَاةً: النَّاقَةُ: اونٹنی کا بہت کم دودھ والی ہونا _____ المَعِيشَةُ: ننگ گزران ہونا _____ الرَّجُلُ: دور ہونا۔ کہا جاتا ہے ”مَا أَدْرِي أَيُّنَ شُصٍّ“ میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔

شُصَّةُ (ن) شُصًّا وَأَشُصَّةٌ: عَنِ كَذَا: منع کرنا۔ دور کرنا۔ ہٹانا۔ أَشُصَّ الرَّجُلُ: دور چلا جانا۔ أَشُصَّتِ النَّاقَةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ صفت شُصُوٌ. مُشِصٌّ نہیں کہتے۔

الشُّصُّ: مٹاؤ۔ ج شُصُوٌ (وَالشُّصُّ) وَشُصُّ: مچھلی شکار کرنے کا لگانا۔ جس کو ”سِنَاةٌ“ بھی کہتے ہیں۔ ج شُصُوٌ۔

الشُّصُوٌ: مِنَ التُّرُقِ وَالشُّبَايِ: کم دودھ والی اونٹنی یا بکری۔ ج شُصُوٌ وَشُصَايِصُ وَشُصَايِصُ: مینہ شُصُوٌ: خشک سال۔ کہا جاتا ہے ”نَفَى اللَّهُ عَنْكَ الشُّصَايِصُ“ اللہ تمہاری سختیوں کو دور کرے۔

شُصَبَ (ن) شُصُوًا وَشُصِبَ (س) شُصَبًا: العَيْشُ: ننگ گزران ہونا۔ صفت (شَايِسٌ) الْأَثَرُ: دشوار ہونا _____

المَكَانُ: قَطْرٌ زَوْهٌ۔ شُصَبَ (ن) شُصَبًا: الشَّاةُ: بکری کی کھال

المَشْطُور - مضم - چٹنی لگی ہوئی روٹی۔
مِنَ الزُّجْلِ: فن عروض کی اصطلاح میں بحر جز
کے چھ اجزاء سے تین جز حذف کیا ہوا۔
المُشَاطِر - ہمسایہ - کہا جاتا ہے "ہم
مُشَاطِرُونَ" ان کے گھر ہمارے گھر سے متصل
ہیں۔

المَشْطُور نَج - ایک مشہور کھیل ہے۔ شکر ت
لفظ جز آنگ کا معرب۔ اس میں چھ قسم کے مروں
سے کھیلتے ہیں جو شاہ فرزین 'فلس' اسپ 'رخ'
اور پیدل کہلاتے ہیں۔ ج شَطْر نجات۔
شَطْنَس (ن) اَشْطَسًا فِی الْأَرْضِ: ستر کرتا۔
الشُّطْس - مہ - چالاک۔
الشُّطْس وَالشُّطْسَة - مخالفت - دشمنی۔
عمار۔

الشُّطُوس - ہر طرف کو جانے والا۔ حکم کے
خلاف چلنے والا۔
شَطْع (س) اَشْطَعًا الزُّجْلُ: مرض وغیرہ کی
وجہ سے گھبرا اٹھنا۔

شَطْف (ن) شَطْفًا الزُّجْلُ: جانا اور دور
ہونا _____ عَنِ الشَّيْءِ: ہٹنا _____ الْغُوبِ
وغیرہ۔ کپڑا وغیرہ دھونا۔

سَهْمٌ (شَطِيفٌ) نشانہ سے خطا کرنے والا تیر۔
نَيْتَةٌ (مَشْطُوفٌ) ارادہ پھیر دینے والی۔
الشُّطْفَةُ مِنَ الشَّيْءِ: کھانا۔ ج شَطْف۔
شَطْمٌ (ن) شَطْمًا اِمْرَأَتُهُ: جماع کرتا۔
شَطْنَةٌ (ن) شَطْنًا: مخالفت کرتا۔ دور کرتا۔
رتھی سے باندھنا۔ شَطْنٌ فِي الْأَرْضِ: داخل
ہونا _____ شَطُونًا الدَّارَ: دور ہونا۔

الزُّجْلُ: جن وغیرہ سے دور ہونا _____
أَشْطَنَةً: دور کرتا۔
شَيْطَانٌ شَيْطَانَةٌ وَتَشَيْطَانٌ: شیطانی فعل کرتا۔
الشُّاطِنُ: فہ - غیبیت۔ جن سے دور ہونے والا۔
الشُّطْنُ - رتھی۔ ج اشْطَانُ۔

بَنُو (شَطُونٌ) زیادہ کرا کر اتوں۔ حَزْبٌ شَطُونٌ:
بست سخت جنگ۔ نَيْتَةُ شَطُونٍ: ارادہ پھیر دینے
شَطُونٌ: لہذا تیر ہائیرہ۔
الشُّطِينُ - دور۔

الشُّيْطَانُ - ج شَيْطَانِيْنُ: دیو۔ ہر سرکش و

اونٹنی کے ایک پستان کا دوسرے سے لبا ہونا۔
ایک پستان خشک ہونا۔

شَطْرُ الشَّيْءِ: دو حصوں میں تقسیم کرنا۔
الشُّعْرُ: شعر کے ہر مصرعہ پر دوسرا مصرعہ
بڑھا دینا (مولدہ) _____ اِتِّاقَةً وَبِالْثَّاقَةِ: اونٹنی
کے ایک طرف کے تھن کو دوسرا دوسرے کو چھوڑ
دینا۔

شَاطِرَةٌ: ماٹھ آدھا آدھا تقسیم کر لینا۔ فَلَانًا:
کسی کے گھر کے متصل گھر والا ہونا _____
الْثَّاقَةُ: اونٹنی کے ایک طرف کے تھن کو دوسرا
دوسرے کو چھوڑ دینا۔

الشُّطْر - مہ - جزء۔ نصف۔ اور اسی سے ہے
"شَطْرُ بَيْتِ الشُّعْرِ" شعر کا نصف واحد 'دوری'
جست 'جانب' اور اسی سے ہے شَطْرُ شَطْرُهُ
_____ وَ"قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ" اپنے

چہرہ کو مسجد کی جانب پھیرنا۔ ج اَشْطُرُو شَطْرُونَ تاتہ
کے تھن کے دو حصے ہوتے ہیں دو اگلے اور دو
پچھلے۔ ہر دو بائیں کو شطر کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے
"حَلَبٌ اَشْطُرُ الدَّهْرِ" یعنی اس نے تجربہ کیا اور
زمانہ کے نیر و شر کو وہ پہچان گیا اور امثال عرب سے
ہے "هَذَا حَلَبٌ لَكَ شَطْرُهُ" یہ ایسا عمل ہے
جس میں فریقین کا نفع ہے۔

الشُّطْرَة - اسم نوع۔ اور کہا جاتا ہے "أَوْلَادُ
فُلَانٍ شَطْرَةٌ" یعنی فلاں کی اولاد نصف مذکر نصف
مؤنث ہے۔

الشُّطْرَانُ - صرف نصف تک بھرا ہوا مؤنث
شَطْرَتِي۔
الشُّاطِرُ: فہ - شوخ و بیباک۔ چالاک و غیبیت۔ ج
شَطْلَارُ۔

الشُّطُورُ: (مِنَ الْبَعَاثِ أَوْ النَّوْقِ): بھیرنا۔
اونٹنی جس کے ایک جانب کا تھن لبا ہوا ایک
جانب کا تھن خشک ہو گیا ہوا۔ نُوْبٌ شَطُورٌ: کپڑا
جس کی ایک جانب دوسرے سے لپی ہو۔ ذَاوُ
شَطُورٍ: دوسرے مکانوں سے علیحدہ مکان۔

الشُّطِينُ - دور۔ اکلیا۔ مسافر۔ اجنبی۔ ج شَطْرَاءُ
و شَطْرٌ: آدھا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا شَطْرَةٌ
و شَطِيرَةٌ" یہ اس کا آدھا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے
"هَذَا بَعْضُهُ وَنَيْفُهُ"۔

و شَطَانُ۔

شَطَب (ن) شَطْبًا - الشَّيْءِ: لبا کاٹنا یا چرنا
_____ ه وَشَطَبَ فَوْقَهُ: لکیر کھینچنا
الزُّجْلُ: دور ہونا _____ عَنَهُ: اعراض کرنا۔ ہٹنا
الزُّمْحُ عَنِ مَقْتَلِهِ: نیزے کا خطر کرنا۔
شَطْبَةٌ: جسم میں عمل تشریح کرنا۔

تَشَطَّبَ - کٹنا (_____ وَانْشَطَبَ) الْمَاءُ
و نَحْوَهُ: برتا۔
الشُّطْب - مہ - لبا خوبصورت قد و قامت
والا۔ درخت خراب یا تر و سبز شاخ۔ ج شَطُوب۔
الشُّطْبَةُ: مِنَ التَّخْلِ: کھجور کی سبز شاخ۔
کھوار۔ ج شَطْب - لکیر جو غلط تحریر پر کھینچ دی
جائے (_____ وَالشُّطْبَةُ) لپی خوبصورت لڑکی۔
ایسے گوشت والا گھوڑا۔

الشُّطْبَةُ وَالشُّطْبَةُ وَالشُّطْبَةُ - کھوار وغیرہ
کے پھل کی دھاری۔ ج شَطْب۔
الشُّطْبِيَّةُ - اونٹ کے کوبان کا کھڑا جو لبا کاٹ
لیا گیا ہو۔ جیسے شَطَابِيْبُ۔

الشُّطَابِيْبُ: مختلف فرقے۔ سختیاں۔
سَيْفٌ (مَشْطُوبٌ وَ مَشْطَلٌ) دھاری دار
کھوار۔ زُجْلٌ مَشْطَلٌ: وہ شخص جس کے چہرہ
میں کھوار وغیرہ کی ضرب کا نشان ہو۔

شَطْر (ن) اَشْطُرًا - الشَّيْءِ: دو برابر حصوں میں
کرتا _____ بَيْتَ الشُّعْرِ: شعر کا نصف حذف
کرتا _____ الثَّاقَةَ أَوْ الشَّاةَ: ایک جانب کے
تھن کو دوسرا دوسرے کو چھوڑ دینا۔ اور کہتے ہیں
شَطْرُ شَطْرُهُ اس نے اس کی جانب کا قصہ کرتا۔

شَطْرَت (ن) شَطْرُونَ - الثَّاقَةَ: اونٹنی کے
تھن کے ایک حصہ کا لبا ہونا۔ شَطْرٌ بَصْرُهُ اس
طرح دیکھنا کہ تمہاری طرف بھی نظر رہے اور
دوسرے کی جانب بھی _____ الدَّارَ: دور ہونا
(شَطَارَةٌ) شوخ و بیباک ہونا۔ چالاک و غیبیت
ہونا۔ (_____ شَطْرُونَ وَشَطَارَةٌ)
عَنْهُمْ: جدا و پھیر ہونا _____ عَلَى أَهْلِهِ:
خباثت و کینہ کی وجہ سے موافقت چھوڑ دینا
_____ النَّهْمِ: متوجہ ہونا۔

شَطْر (ک) شَطَارَةٌ - شوخ و بیباک ہونا۔
چالاک و غیبیت ہونا (_____ شَطْرُونَ الثَّاقَةَ

کرن۔
 الشَّعَاعُ: آفتاب کی کرن۔ جِ أَشِعَّةٌ وَشُعَعٌ وَشِعَاعٌ۔
 الشَّعَاعُ: مم۔ خون وغیرہ کا بکھرتا۔ ہلکا سایہ
 مِنَ اللَّبَنِ: زیادہ پالی ملا ہوا دودھ۔ ہر
 بکھری ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "ضَرَبْتُ بِالْعَصَاءِ
 عَلٰی الْحَاظِلِ فَتَطَارَتْ شِعَاعًا" میں نے
 لاٹھی کو دوپار پر مارا جس کی وجہ سے لاٹھی کے
 پتھروں سے اڑ گئے۔ "ذَهَبَ الْقَوْمُ شِعَاعًا" قوم
 بکھر گئی۔ "طَارَ قَلْبُهُ شِعَاعًا" اس کا دل غموں کی
 وجہ سے پر اگندہ ہو گیا۔ و "طَارَتْ نَفْسُهُ
 شِعَاعًا" خوف وغیرہ کی وجہ سے اس کا جی
 پر اگندہ و پریشان ہو گیا۔
 شِعَاعُ السَّنْبُلِ وَشِعَاعُهُ وَشِعَاعُهُ وَشِعَاعُهُ: شِعَاعٌ
 خوشہ کا خشک کاٹنا جب تک کہ خوشہ پر رہے۔
 الشَّعُّ وَالشَّعِيفُ: جلدی۔ و الشَّعُّ مِنْ كُلِّ
 شَيْءٍ: بکھری ہوئی۔
 شَعَبٌ (ف) شَعْبَانُ: الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ متفرق
 کرنا۔ درست کرنا۔ بگاڑنا (ضد) پھاڑنا۔
 الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔ القَوْمُ: متفرق
 ہونا۔ الرَّجُلُ: مرنا۔ شَعَبَةُ الْمَيْتَةِ:
 اچانک ہلاک کرنا۔ فَلَانًا: مشغول کرنا
 اللِّجَامُ الْفَرَسِ: لگام کا گھوڑے کو روکنا
 اور دو سر کی طرف کو پھیرنا۔ کہا جاتا ہے "اشْعَبْتُ
 لِي شَعْبَةً مِنَ الْمَالِ" یعنی اپنے مال میں سے
 ایک حصہ مجھ کو دو۔ شَعَبْتُ إِلَى الْقَوْمِ: اپنے
 ساتھیوں کو چھوڑ کر قوم کی طرف مائل ہونا

 الامِينُ سُؤْلًا إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا: پیغامبر
 بنا کر بھیجنا۔
 شَعَبٌ (س) شَعْبَانُ الرَّجُلِ أَوْ الْفُؤُؤُ:
 کندھوں اور سینگوں کے درمیان فاصلہ والا
 ہونا۔
 شَعَبٌ وَأَشْعَبٌ: عَنَّةٌ: بیشہ کیلئے جدا ہونا۔
 أَشْعَبُ الرَّجُلُ: مرنا۔
 شَاعَبٌ: وَشَاعَبَتْ نَفْسُهُ: مرنا۔ شَاعَبَتْ
 الْحَيَوَةَ: ہلاک کرنا۔ صَاحِبَهُ: ذور ہونا۔
 تَشَعَّبُوا: متفرق ہونا۔ تَشَعَّبَ الزُّرْعُ:
 شاخوں والی ہونا۔ التَّهْرُ: متفرق شاخیں

الشَّظْفُ: مم۔ لاٹھی کی پھین۔
 الشَّظْفُ: خشک روٹی۔ کھوٹی کی مانند کڑی۔
 جِ شِظْفَةٍ۔
 الشَّظْفُ: بد خلق۔ بوجاہتجو۔ عَزُوْدٌ شِظْفٌ: ٹوٹی
 ہوئی کڑی۔ اَزْرُسٌ شِظْفَةٌ: سخت و خشک زمین۔
 المِشْظَفُ: بے ارادہ تعریض کرنے والا۔
 الشَّيْظُمُ وَالشَّيْظِمِيُّ: اسباتا ورجوان (گھوڑا یا
 اونٹ یا آدمی) مَوْتٌ شِظْمَةٌ جِ شِظَاظِمَةٌ۔
 الشَّيْظُمُ: بوڑھا۔ سبسی۔ شیر۔
 شِظِيٌّ (س) يَشْظِي شِظِيًّا: پھٹنا۔ القَوْمُ:
 متفرق ہونا۔
 شِظِيٌّ يَشْظِي شِظِيًّا: السَّقَاءُ: خوب اچھی
 طرح بھر جانا۔ المَيْتُ: میت کے ہاتھ
 پیروں کا اٹھ جانا۔
 شِظِيٌّ تَشْظِيَةً: القَوْمُ: متفرق کر دینا۔
 الْفَرَسُ: گھنے کی باریک ہڈی کو پھاڑنا۔
 أَشْظِيٌّ: ہ۔ گھنے کی باریک ہڈی پر مارنا۔
 تَشْظِيٌّ: پھٹنا۔ متفرق ہونا۔ العَوْدُ:
 ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
 اِنْشِظِيٌّ: پھٹنا۔
 الشَّظِيٌّ: مم۔ دست یا زانو کی پٹلی اور چھوٹی
 ہڈی یا ان میں سے چھوٹے بھونٹے۔ قوم کے
 پیرو۔ اچھی لوگ جو قوم میں داخل ہو جائیں۔
 الشَّظِيَّةُ: کمان۔ پندل کی ہڈی۔ کڑی۔ ہڈی
 وغیرہ کا ٹکڑا۔ جِ شِظَايَا وَشِظِيٌّ۔
 الشَّظِيَّةُ: پھر کا بڑا ٹکڑا جو پہاڑ سے ایک طرف کو
 نکلا ہو۔
 شَعٌ (ض) شَعَا وَشِعَاعًا: المَاءُ: بکھرتا۔ پھیلانا
 شَعٌ (ن) شَعَا وَشِعَاعًا: المَاءُ: بکھیرنا۔ کہا جاتا
 ہے "شَعَّ الْغَازَةُ عَلَيْهِمْ" ہر طرف سے لوٹ
 ڈالنا۔
 أَشَعَّ إِشْعَاعًا: المَاءُ وَنَحْوَهُ: بکھیرنا۔
 الشَّمْسُ: شعاع پھیلانا۔ الزَّرْعُ: کھیتی میں
 خوشہ لگانا۔ السَّنْبُلُ: دانوں سے پر ہونا۔
 اِنْشَعَّ: الذَّنْبُ فِي الْعَنَمِ: بھیرے کا بکریوں
 میں تپائی ڈالنا۔
 الشَّعُّ: کھڑی کا جالا۔ شَعَّ الشَّمْسُ: آفتاب کی

نافرمان (آدی ہو یا جن یا جانور) اور اسی سے ہے
 "شَيْطَانِي الْعَرَبُ" عرب کے سرکش و نافرمان
 لوگ۔ سَابَ: شَيْطَانُ الْفَلَاةِ: پیاس۔ مُخَاظُ
 الشَّيْطَانِ: تر مرے یعنی وہ چیز جو گرمی کے
 زمانے میں کھڑی کے جالے کی مانند فضا میں
 معلوم ہوتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے "زَكِيَّةُ
 شَيْطَانُهُ" یعنی وہ غضبناک ہوا و "شَيْطَانِي
 الزَّوَسِ" غمٹے کا گوش۔
 المِشْظِفَةُ: اونٹ کے چوڑے کا داغ۔
 المِشْطَاظُ: ڈول کو دو سر سے کھینچنے والا۔
 شِظِيٌّ (س) شِظِيًّا: المَيْتُ: میت کے ہاتھ
 پیروں کا اٹھ جانا۔
 شِظِيٌّ تَشْظِيَةً: الشَّاةُ: کھال اتارنا اور
 گوشت کو جدا کرنا۔
 اِنْشِظِيٌّ: الشَّيْءُ: پر اگندہ و متفرق ہونا۔
 شِظَّةٌ (ن) شِظًّا: الأَمْوُ: دوشوار ہونا۔ سختی میں
 ڈالنا۔ وَشِظْفًا وَشِظًّا: القَوْمُ: پر اگندہ و
 متفرق کرنا۔ و شِظًّا: وَأَشْظُ الْجَوَالِقِ:
 ٹیڑھے سرے کی کڑی کو پورے کے دونوں
 گوشوں میں باندھنا۔
 الشَّظُّ: مم۔ دن کا پتھر۔ جِ أَشْظَاظُ۔
 الشَّيْظَاظُ: ٹیڑھے سرے کی کڑی جو پورے
 کے دونوں گوشوں میں داخل ہو۔ جِ أَشْظِفَةٌ۔
 الشَّيْظِيظُ: بندھا ہوا پورا۔ چری ہوئی کڑی۔
 جِ أَشْظَاظُ: کہا جاتا ہے "طَارَوا أَشْظَاظًا
 اور شِظْفَاظًا" یعنی وہ لوگ متفرق ہو گئے۔
 شِظْفٌ (س) شِظْفًا: المَيْتُ: تنگ گزران
 ہونا۔ الرَّجُلُ: تنگ زندگی والا ہونا۔
 صَفْتُ (شِظْفٌ) العَيْشِ: شِظْفَتْ يَدُهُ: سخت
 اور کھردرا ہونا۔ السَّهْمُ: تیر کا کھال اور
 گوشت کے درمیان داخل ہونا۔ ()
 وَشِظْفٌ (ك) شِظْفًا: الشَّجَرُ: سخت ہونا۔
 صَفْتُ (شِظْفِيٌّ)
 شِظْفَهُ (ن) شِظْفًا: عَن كَذَا: منع کرنا۔
 روکنا۔
 الشَّظْفُ: مم۔ جِ شِظْفًا وَ (الشَّظْفَاظُ)
 تنگی و سختی۔
 الشَّظْفَاظُ: ذوری۔

اللہ نے ان کے امر کو جمع کر دیا۔
الشَّعْبُ وَالشَّعْفَانِ۔ چکھے ہوئے اور غبار
آلود بال والا۔
شَعْرَ (ن) شَعْرًا وَشَعْرًا۔ القُوبُ: کپڑے
میں بال بھرنا۔ الزُّجُلُ: شعر کھنا۔
بِقُلَانٍ: کسی کے لیے شعر کھنا۔
شَعْرَ (ن) وَشَعْرَ (ك) شَعْرًا وَشَعْرًا
وَشَعْرَى وَشَعْرَى وَشَعْرَى وَشَعْرَةَ بَطْلِيَّتِ
وَالشَّيْنِ وَشَعْرًا وَشَعْرَةَ وَشَعْرًا
وَمَشْعُورَةً وَمَشْعُورَاءَ۔ یہ: جاننا۔ محسوس کرنا
لَهُ: کھینا۔
شَعْرَ (س) شَعْرًا: زیادہ اور لمبے بال والا ہونا۔
شَعْرَ۔ الحَيْنِيْنِ: جنین کے شکم مادر میں بال
لکنا۔ القُوبُ وَنَحْوَهُ: کپڑے میں بال
بھرتا۔
أَشَعْرَ۔ الحَيْنِيْنِ: جنین کے شکم مادر میں بال
لکنا۔ القُوبُ: کپڑے وغیرہ میں بال بھرنا
ہ الامْرُ وَبِالْأَمْرِ جَمَادِيَا۔ خبر دینا۔ ہ
الشَّعَارُ: شِعَارٌ (وہ کپڑا جو بالوں سے متصل ہو)
پناتا۔ اور کہا جاتا ہے "أَشَعْرَ الِهْمُ قَلْبِي" غم
میرے دل کے ساتھ چپک گیا۔ أَشَعْرَهُ بِكَذَا:
چپکانا۔ القُوبُ: اپنے لیے خاص علامت
مقرر کرنا۔ ایک دوسرے کو علامت مقررہ سے
پکارنا۔
أَمْرٌ فُلَانٌ: مشہور کرنا۔ الزُّجُلُ:
بڑے نام سے مشہور کرنا۔ هَشْرًا: ڈھانپ
لینا۔
شَاعَرَهُ فَشَعْرَهُ۔ شعروں میں غالب ہونے
کے لیے مقابلہ کرنا اور غالب ہونا۔
أَشَعْرَ الْمَلِكِ: بادشاہ کا نقل کیا جانا۔
تَشَعَّرَ الحَيْنِيْنِ: جنین کے شکم مادر میں بال
لکنا۔
تَشَاعَرُ: تکلف شاعر بننا۔
إِسْتَشَعَّرَ الحَيْنِيْنِ: جنین کے شکم مادر میں
بال لکنا۔ الشَّعَارُ: پنٹنا۔ القُوبُ:
ایک دوسرے کو علامت خاص سے پکارنا۔
بِالقُوبِ: شعرا کو کپڑوں کے نیچے پنٹنا۔ کہا جاتا
ہے "إِسْتَشَعَّرَ خَوْفَ اللَّهِ" اللہ کے خوف کو

شَعْبَانَاتُ وَشَعَائِيْنِ (کلمہ غیر منصرف ہے)
شَعُوْبٌ۔ موت کے لیے علم ہے اور غیر منصرف
ہے۔
الأَشْعَبُ۔ جس کے کندھوں یا سینگوں کے
درمیان بہت فاصلہ ہو۔ ٹوٹے ہوئے سینگ والا۔
مَوْتٌ شَعْبَاءٌ۔ ج. شَعْبٌ۔
الشَّعَابُ: شگاف کو درست کرنے والا۔ پیشہ کا
نام (الشَّعَابَةُ) ہے۔
الشَّعِيْبُ۔ کجاوہ۔ پرانی مٹک۔ توشہ دان۔ ج.
شَعْبٌ۔
الشَّعَابِيَانِ۔ دونوں کندھے۔
المَشْعَبُ۔ راستہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَشْعَبُ
الحَقِّ" یہ حق کا راستہ ہے جو حق اور باطل کے
درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ ج. شَعَابِي۔
المَشْعَبُ۔ سوراخ کرنے کا آلہ۔ ج.
مَشَاعِبُ۔
المَشْعَبُ۔ درست کیا ہوا۔
شَعْبِيَّةٌ۔ شہدہ بازی کرنا۔ بازی گری کرنا۔
شَعْبٌ (س) شَعْفًا۔ الأَمْرُ: پراگندہ ہونا۔
شَعْفًاو شَعْفُوْنَةً: الشَّعْرُ: بالوں کا غبار آلود
ہونا۔ چکٹ جانا۔
شَعْفٌ۔ الشَّيْءُ: متفرق کرنا۔ بکھیرنا۔ پراگندہ کرنا
ہ بَخْنُو: خیر پہنچانا۔ مِّنْ فُلَانٍ: چشم پوشی
کرنا۔ مِّنْهُ شَيْئًا: لے لینا۔ نکال لینا۔
عَنْهُ: مدافعت کرنا۔ مِّنْ الطَّعَامِ: تھوڑا
کھانا۔ الشَّعَائِلُ: شعر میں شعیب جاری
کرنا (شعیب عظیم عروض کی اصطلاح میں
"فاعلاسن" کے وند کے دو متحرک میں سے ایک
متحرک حذف کرنے کو کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے
وہ مفعول کے وزن پر ہو جاتا ہے۔)
تَشَعَّرْتُ۔ پراگندہ ہونا۔ بکھرتا۔ مِّنْ
الطَّعَامِ: تھوڑا کھانا۔ الشَّعْرُ: بالوں کا
چکٹ جانا اور غبار آلود ہونا۔ الشَّعْرُ: شعر
میں شعیب جاری ہونا۔
الأَشْعَثُ۔ چکھے ہوئے اور غبار آلود بال والا۔
مَوْتٌ شَعْبَاءٌ۔ ج. شَعْفٌ۔
الشَّعْفُ۔ پراگندگی حاملہ۔
الشَّعْفُ۔ م۔ کہا جاتا ہے "لَمْ اللَّهُ شَعْنَهُمْ"

لکنا۔ عَنْهُ ذُورٌ ہونا۔ تَشَعَّبْتُمْ الفِئْتَةَ:
جد جدا کر دینا۔ تَشَعَّبْتُ أَعْصَانُ الشَّجَرَةِ:
متفرق شاخیں پھیلانا۔ الشَّيْءُ: درست
ہونا۔
إِنشَعَبَ۔ عَنْهُ ذُورٌ ہونا۔ أَعْصَانُ
الشَّجَرَةِ: بلا سے شاخیں لکنا۔ الظَّرِيْفِيُّ
أَوِ التَّهْوِيُّ: جدا ہونا۔ إِنشَعَبَ الزُّجُلُ وَانشَعَبَ
نَفْسُهُ: مرنا۔ الشَّيْءُ: درست ہونا۔
إِنشَعَبَ بِهِ الْقَوْلُ: بات میں سے بات لکنا۔
الشَّعْبُ۔ م۔ بڑا قبیلہ۔ لوگوں کی جماعت
مشل۔ کہا جاتا ہے "هُمَا شَعْبَانٌ" وہ دونوں ایک
جیسے ہیں۔ دُورِي۔ ذُورٌ۔ کہا جاتا ہے "مَاءٌ
شَعْبٌ" ذُورٌ کاپانی۔ سر کے کلون کے ملنے کی
جگہ۔ شگاف۔ کہا جاتا ہے "الطَّامُ شَعْنَهُمْ" وہ
لوگ متفرق ہونے کے بعد جمع ہو گئے۔ ج.
شَعُوْبٌ۔
الشَّعْوِيَّةُ۔ وہ لوگ جو عرب کی حقارت کریں
اور محم پر فضیلت نہ دیں۔ واحد (شَعْوِيٌّ)
الشَّعْبُ۔ پہاڑی راستہ۔ پانی کا راستہ۔ دُورَةٌ۔ کوہ۔
بڑا قبیلہ۔ جانب۔ ج. شَعَابٌ اور کہتے ہیں۔
"شَعَلْتُ شِعَابِي جِدْوَايَ" یعنی اہل و عیال پر
خرچ کی وجہ سے دو سروں پر مہربانی کرنے سے
باز رہا۔
الشَّعْبُ۔ م۔ دونوں کندھوں یا دونوں
سینگوں کے درمیان کا فاصلہ۔
الشَّعْبِيَّةُ۔ فرقہ۔ کسی چیز کا گروہ۔ شاخ۔ دونوں
سینگوں یا دو شاخوں کے درمیان کا فاصلہ۔ پانی بننے
کی جگہ۔ وادی کی بڑی نالی۔ پہاڑ کی وادئ۔ ج.
شَعْبٌ وَشَعَابٌ وَشَعْبُ الذَّهْوِ: زمانہ کے
احوال۔ شَعْبُ السَّقُوْدِ: رخ کے ودانے جس
میں بھوننے کیلئے گوشت لٹکتے ہیں۔ شَعْبٌ
الْبَيْدِ: انگلیاں۔ شَعْبُ الفَرَسِ: گھوڑے کے
اطراف جو بلند ہوں جیسے سرو وغیرہ۔ شَعْبٌ
الجَحْسِمِ: ہاتھ پاؤں۔ شَعْبِيْنَا الزُّجُلِ: کجاوہ کا
اکلا پھلا حصہ اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ مَسْأَلَةُ
كَبِيْرِ الشَّعْبِ" یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی
تفریحات بہت ہیں۔
شَعْبَانُ: قمری میزوں کا آٹھواں میز۔ ج.

اپنے قلب کے لیے شعاریاں۔

الشَّعْرُ وَالشَّعْرَاءُ - بال - ج أشعار وشعائر
وشعور - واحد (شعرة) ج شعرات - شعز
الغؤل - ایک قسم کی نباتات۔

الشعر - مہ - کلام منظوم - ج أشعار - "لَيْتَ
شِعْرِي فَلَأَنَا وَعَنْ فُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ مَا صَنَعَ"
یعنی کاش مجھے فلاں کے مشعلق علم ہوتا کہ اس
نے کیا کیا۔

الشعرة - بال کا ایک ٹکڑا (والشعراء)
ناف کے نیچے بال اگنے کی جگہ۔

الشعور والشعوراء - بہت اور لمبے بال والا۔

الشعار - درختوں والی جگہ - نرم زمین میں
مخچان درخت جہاں لوگ سردی میں گرمی

حاصل کریں اور گرمی کے زمانہ میں سایہ لیں۔
درخت - بدن کے بالوں سے متصل لباس - شعاز

الحج: احکام حج و رسوم حج - واحد (شعارة)
الشعار - مخصوص لفظ جس سے فوج والے

ایک دوسرے کو پچانیں یا لڑائی کے موقع پر ایک
دوسرے کو پکاریں - مولدین اس کو "صبر الليل"

کہتے ہیں - لڑائی یا سفر میں مقرر کردہ علامت بدن
کے بالوں سے متصل لباس گھوڑے کا جھول۔

كوك - مخچان درخت - ج أشعرة وشعور -
شعاز الحج: علامت و رسوم حج - و شعاز

المملكة: حکومت کے علامات - واحد
(شعارة)

الشعيرة - جو - واحد (شعيرة) ج شعيرات اور
شعيرة کا طلاق اس بیانیٹس پر بھی ہوتا ہے جو ٹخمر

کے بالوں کے چھ بال کے برابر ہو - نیز گوبائی جو
آٹکھ کے پلک کے کنارے پر ہوتی ہے۔

الشعيرة - علامت - ج شعائر - شعائر
الحج: حج کے رسوم و علامات۔

الشعيرة - شعیر کی جانب منسوب - جو کا بیچنے
والا۔

الأشعر - بہت اور لمبے بال والا - مؤنث
شعراء - ج شعر - کہا جاتا ہے "فُلَانٌ أَشْعَرُ

الرَّقِيَّةِ" یعنی فلاں گردن پر بہت بالوں والا ہے
گویا کہ وہ شیر ہے - الأشعر: ج أشاعور - جانور

کے کھر کے گرد گرد کا چھرا گوشت جو ناخن کے

نیچے نکلے - اور کہا جاتا ہے "هَذَا الْبَيْتُ أَشْعَرُ مِنْ
هَذَا" یہ شعراں سے اچھا ہے۔

الشعراء - الأشعر کا مؤنث - پوسٹین -
جانوروں پر بیٹھے والی کبھی لوگوں کی کثرت اور

بھیر - ایک قسم کا آرزو - ایک شور مہم کا درخت -
أَرْضٌ شَعْرَاءٌ: بہت درختوں والی زمین - وصال

شعراء: کسی نئی گھاس اگانے والا ریگستان -
الشعراء مِنَ الدَّوَاهِي: سخت مصلحتیں - ج

شعر -
الشاعر - فا - شعر کہنے والا - ج شعراء - مؤنث

شاعرة - ج شواعر و شاعرات - شعر شاعرة:
عمدہ شعر۔

الشعري - ایک ستارہ کا نام جو سخت گرمی میں
طلوع ہوتا ہے۔

الشعور - گھنڈا درجہ کا شاعر - سب سے بہترین
درجہ کے شاعر کو جنڈینڈ اور اس کے بعد شاعر اس

کے بعد شعور اور اس سے بھی کم درجہ والے کو
شعور کہتے ہیں - اس کے بعد صرف ایک ہی

درجہ ہے جو مُتَشَاعِرٌ کہلاتا ہے - الشعور:
چھوٹی کڑی - ج شعائر و واحد (شعوروة)

المشعر - علامت - درخت کے نیچے سایہ لینے
کی جگہ - رسوم حج کے ادا کرنے کی جگہ - ج

مشاعر - المشاعر: جو اس -
شعنع - الشواب: پانی مانا - الشئی:

بعض کو بعض سے مانا - شَعْنَعَتِ الشَّمْسُ:
آفتاب کی روشنی پھیلنا - الصَّوْءُ: روشنی

پھیلنا - شَعْنَعُ عَلَيْهِمُ الخَيْلُ: سواروں سے
حملہ کرنا۔

تَشَعْنَعُ الشَّهْرُ: مہینے کے تھوڑے دن باقی
رہنا۔

الشعنع والشعنع والشعنع
والشعنعان والشعنعان: لبا - خوبصورت

زیرک - سبک (والشعنع) مِنَ الظِّل:
ہلکا سایہ۔

شَعْفَةٌ (ف) شَعْفًا الخُبُّ: محبت کا دل پر
غالب ہونا - ه بِالْقَطْرَانِ: قطران مانا

الشئی الشئی: غالب ہونا۔
شَعْفٌ (س) شَعْفًا بِفُلَانٍ وَبِحُبِّ فُلَانٍ:

شيفتہ و فریفتہ ہونا - النَّاقَةُ: اونٹنی کو شعت
کی بیماری ہونا (دیکھو لفظ شعف) صفت

(شَعْفَاءُ)
شَعْفٌ بِفُلَانٍ: کسی کی محبت میں دیوانہ ہونا۔

الشعف - مہ - کوہان کی چوٹی - ایک بیماری جو
اونٹنی کو لاحق ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی

آنکھوں کے بال جھڑجاتے ہیں۔
الشعفة - اسم مرہ - بارش کی ایک بوند - ہلکی

بارش جو زمین کو تر کر دے۔
الشعفة - پہاڑ کی چوٹی - سر کے بالوں کی لٹ۔

الشعفة مِنَ القَلْبِ: دل کا سرا جو شہرہ رگ کے
ساتھ لٹکا ہوا ہے و شعفة كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کی

چوٹی - ج شَعْفٌ وَشَعُوفٌ وَشَعْفٌ
وَشَعْفَاتٌ۔

الشعاف - محبت کی دیوانگی - شیفگی - فریفتگی۔
الشعاف - شیفگی و فریفتگی۔

المشعوف - محبت میں دیوانہ و شیفنتہ۔
شَعْلٌ (ف) شَعْلًا النَّازُ: آگ بھڑکانا

الأمز: غور کرنا۔
شَعْلٌ (س) شَعْلًا وَاشَعْلًا: القَرَسُ:

گھوڑے کی ڈم یا پیشانی پر سفید داغ ہونا۔
صفت (شَاعِلٌ وَشَعِيلٌ وَاشَعْلٌ)

شَعْلٌ النَّازُ: آگ بھڑکانا۔
أَشَعْلٌ النَّازُ: آگ بھڑکانا - ه غبناک کرنا۔

غُفْنَةٌ دَلَانَا: الخَمْعُ: جتروق کرنا
الخَيْلُ فِي الغَارَةِ: سواروں کو چاروں طرف

پھیلا دینا - السَّقِيُّ: اچھی طرح سیراب
کرنا - اشَعْلَتِ القَرْبَةُ: منگ کا جتروق پکینا

الظَّفْنَةُ: جگہ جگہ خون نچلنا
العَيْشُ: زیادہ آنسوؤں والی ہونا۔

إشَعْلٌ إشَعْلًا وإشَعْلًا إشَعْلًا لِأَسِ
الرَّجُلِ: کھڑے بال والا ہونا - القَرَسُ:

گھوڑے کی ڈم یا پیشانی پر سفید داغ ہونا۔
تَشَعْلَتُ وَاشْتَعْلَتُ النَّازُ: آگ بھڑکانا - کہا

جاتا ہے "إشَعْلَ الرَّاسُ شَيْئًا" سر کے بالوں
میں سفیدی پھیل گئی - وإشَعْلَ فُلَانٌ وَه غُفْنَةٌ

سے بھڑک اٹھا۔
الشعل - مہ - غلام شَعْلٌ: سبک تیز خاطر

لڑکا۔

الشَّعَلُ - مہ - گھوڑے کی دم یا پیشانی کی سفیدی اور کبھی سر کے پچھلے حصہ پر ہوتی ہے۔

الشَّعْلَةُ - گھوڑے کی دم یا پیشانی کی سفیدی آگ کی بھڑک۔ آگ کا شعلہ۔ ج شعل۔

الشَّعِيلُ - ہانڈی یا توڑے کے نیچے ستاروں کی مانند چمکا ہوا جود کھائی دیتا ہے۔

الشَّعِيْلَةُ - بھڑکی ہوئی آگ۔ جلتی ہوئی جی۔ ج شعل۔

الأشعل - مِنَ النَّاسِ: پیدائشی آنکھوں میں سرخی والا۔

المشعل والمشعلان - چمٹنا۔ چڑے کا ایک برتن جس میں نمیز بنایا کرتے تھے۔ ج مشاعیل

ومشاعيل - المشعل والمشعلة - قدیل۔ ج مشاعیل المشعلة: آگ بھڑکانے کی جگہ۔

الشُّعْلُولُ - آگ کی بھڑک۔ لوگوں کا گروہ۔ ج شعائل۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبُوا شُعَائِلِ" وہ

لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔

شَعَمٌ (ف) شَعْمًا - الرَّجُلُ: لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔

أَشَعَنَ - عَدُوَّهُ: دشمن کی پیشانی کے بال پکڑنا۔

بِشَعَانٍ وَأَشَعَنَ - شَعْرُهُ: چمٹ جانا اور غبار آلود ہونا۔

الشَّعْنُ - خشک ہونے کے بعد جو گھاس یا پتے گرجائیں۔ شَعْرٌ (مَشْفُونٌ) پر آئندہ بال۔

الشَّعَائِينُ - عیسائیوں کا ایک تواریخ و کھولفظ شعائین)

رَجُلٌ (مَشْعَانٌ) الرَّاسِ: پر آئندہ اور کھڑے بالوں والا مرد۔

شَعْبٌ - الكنبش: سیدھے نکلنے کے بعد کان کی طرف بڑے ہوئے سینگوں والا ہونا۔ صفت (مَشْعَبٌ وَمَشْعَبٌ)

شُعَائِي شُعْرًا شُعْرًا: شعور۔ بالوں کا کھڑا ہونا۔ شَعِبَتْ تَشَعَّبَ شَعًا - الغَاظَةُ: چاروں طرف

لوٹ پڑنا۔ صفت (شُعْوَاء) أَشْعَى بِهِ: اہتمام کرنا۔ الْقَوْمُ الْغَاظَةُ: چاروں طرف لوٹ ڈالنا۔

غَاظَةٌ (شُعْوَاء) - پھیلی ہوئی لوٹ۔ شَيْخْرَةٌ شُعْوَاء: پھیلی ہوئی ٹہنیوں والا درخت۔

الشَّاعِي - فَا - ذور۔ متفرق۔ مشترک حصہ۔ مؤنث شَاعِيَةٌ شُوعًا - کہا جاتا ہے "بِجَاءِ تِ الْخَيْلِ شُوعًا" گھوڑے متفرق

آئے۔

الشُّعَى - پر آئندہ بالوں کا گچھا۔ واحد (شُعْوَةٌ) شُعْوَذُ شُعْوَذَةٌ - شہدہ بازی کرنا۔ نظر بندی کرنا۔ بازی گری کرنا۔ صفت (مَشْفُوذٌ وَمَشْفُوذَةٌ)

شَعَبٌ (ف) وَشَعْبٌ (س) وَشَعْبَانَا وَشَعْبَانَا وَشَعْبٌ - الْقَوْمُ وَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ: نساد برپا کرنا۔ تباہی ڈالنا۔ صفت (شَعِبٌ وَشَعْبٌ وَشَعَابٌ وَمَشْعَبٌ وَمَشْعَابٌ وَذُو مَشَاعِبٍ)

شَعْبٌ (ف) شَعْبَانَا عَنِ الطَّرِيقِ: ہٹنا۔ پھر جانا۔ شَاعِبُهُ - بھگڑا کرنا۔

تَشَاعَبَ - الرَّجُلُ: تا فرمانی کرنا۔ کہا جاتا ہے "طَلَيْتُ مَهْ كَذَا فَتَشَاعَبَ" میں نے اس سے

فلاس چیر طلب کی وہ دینے سے باز رہا۔

الشَّعْبُ وَالشَّعْبُ - مہ - شورو ٹوغا۔ الشُّعُوبُ - فساد انگیز۔ بھگڑا لو۔

تَشَعَّبَتِ - الرَّيْحُ: ہوا کا تل کھاتے ہوئے چلنا۔

الشُّعْبَرُ - گیدڑ۔

شَعْرَتٌ (ن) شَعْرًا - الْأَرْضُ: بغیر محافظ و گھراس کے ہونا۔ صفت (شَاعِرَةٌ) الرَّجُلُ: ذور ہونا۔ السُّعْرُ: بھاؤ گھٹنا۔ النَّاسُ: لوگوں کا تفرق ہونا۔

شَعْرَةٌ (ن) شَعْرًا وَشَعْرًا - عَنِ بَلَدِهِ: جلا وطن کرنا۔

شَعْرٌ (ف) شَعْرًا - الْكَلْبُ: کتے کا ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا۔ الثَّاقَةُ: اونٹنی کا ٹانگ اٹھا کر پچھ کرنا۔

شَاعِرَةٌ مَشَاعِرَةٌ وَشَعْرًا - کسی کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرنا کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح بغیر مہر کے اس سے کر دے۔

الرَّجُلَانِ عَلَيَّهِ: نجوم کرنا۔ حملہ کرنا۔

أَشَعْرَ الْمَهْتَلُ: چشمہ کارا سے ذور ہونا۔ الْوَفْقَةُ: ساتھیوں کا راستہ سے جدا ہونا۔

الجَسَابُ عَلَيَّهِ: کثرت اور پھیلاؤ کی وجہ سے ناقابل ضبط ہونا۔

إِشْفَرُ - الْجَسَابُ عَلَيَّهِ: خلط لٹھ ہونے اور پھیر ہونے کی وجہ سے ناقابل ضبط ہونا۔

الْأَمْرُ: بڑا اور وسیع ہونا۔ خلط لٹھ ہونا۔ عَلَيَّهِ: دست درازی کرنا۔ فخر کرنا۔

الْحَزْبُ بَيْنَ الْقَوْمَيْنِ: وسیع بیانہ پر اور سخت جنگ ہونا۔ فِي الْفَلَاةِ: بیابان میں ذور تک جانا۔

تَشَعَّرَ - الْبَيْتُ: تیز دوڑنا۔ فَنِي أَمْرٍ قَبِيحٍ: اہتمام کو پھینا۔ کہا جاتا ہے تَفَرَّقُوا (شَعَرُوا) بَعْرًا وَشَعْرًا وَبَعْرًا وَبَعْرًا: ہر طرف متفرق ہو گئے اور بکھر گئے۔ اِنَاءٌ (شَعْفَانٌ) خَالٍ تَرْتَنٍ۔

الشُّعَارُ - مہ - دھکار۔ جلا وطنی۔ بَعْرًا شَعْرًا وَأَبْرًا شَعْرًا: بہت پانی والے وسیع کوسوں۔

الشُّعَارَةُ - حتمان۔

الشُّعَيْرُ - بد خلق۔

المِشْفَرُ - وحشی جانوروں کے بھگانے کا چھوٹا نیزہ۔

الشُّوْعَرُ - مضبوط خلقت۔

الشُّوْعَرَةُ - کجور کے بیوں کی بنی ہوئی زنجیل۔

الشُّعْرُورُ - ایک قسم کی گھاس۔

الشُّعْرِيَّةُ - ٹانگ میں ٹانگ لگا کر زمین پر پھلنا۔

شَعْرٌ (ف) شَعْرًا - عَلَيْهِم: زیادتی کرنا۔ دست درازی کرنا۔ بَيْتَهُمْ: بھڑکانا۔ نساو ڈالنا۔

الشُّعْرِيَّةُ - بمعنى الشُّعْرِيَّةُ۔

تَشَعَّرَتِ - الرَّيْحُ: ہوا کا تل کھاتے ہوئے چلنا۔

شَعْنُ - الشُّعَى: داخل کرنا۔ نکالنا۔ اندر باہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَعْنُ الْعَالَمِينَ" جبکہ نیزہ مارنے والا نیزہ کو نیزہ زدہ کے جسم میں حرکت دے۔ الشُّلُجِمُ: جانور کو سدھانے کے لیے لگام کو ہلاتا۔ فِي الْأَمْرِ: جلدی کرنا۔

فِي الشُّرْبِ: کم کرنا۔ فِي الْإِنَاءِ مَاءً: وغیرہ۔ بغیر بھرنے کے ڈالنا۔ الْبَيْتُ: گدلا کرنا اور کہا جاتا ہے "شَعْنُ شُرْبِي" اس نے میرے پینے کی چیز کو گدلا کر دیا۔

شَعْفَةُ (ف) شَعْفَانًا - دل کے پروے کو زخمی کرنا

فُوْأَدَه: دل پر غالب ہونا
 لَبِيْسُ: بزی نکل آنا۔
 شَهْفُ (س) شَهْفَاوُ شَهْفٌ: بہ: فریفت ہونا۔
 شَهْفٌ حُثَّةٌ: نخت کا دل کے پردے میں پہنچنا۔
 تَشَهَّفُ النَّاسُ: دوسو ڈال کر پر آگندہ کرنا۔
 الشَّهْفُ: ہم۔ دل کا پردہ۔
 الشَّهْفُ: ہم۔ استہالی نخت۔ شَهْفُ الْقَلْبِ: دل کا پردہ۔
 الشَّهْفَا: دل کا پردہ۔ سویداء دل۔ ج شَهْفٌ وَأَشْفَةُ۔
 الشَّهْفَاوُ وَالشَّهْفَا: ایک بیماری جو دائیں طرف کی پسلیوں کے نیچے ہوتی ہے۔
 الشَّهْفَرُ: خوبصورت عورت۔
 شَهْلَةٌ (ف) شَهْلَاوُ شَهْلَاوُ وَأَشَهْلَةٌ بِكَذَا: مشغول کرنا۔ غافل کرنا۔ شَهْلٌ عَنْهُ بِكَذَا: مشغول رہنا۔ کسی کام میں لگا رہنا۔ اور اسی سے کہا جاتا ہے ”مَا أَشَهْلَةٌ“ یعنی وہ کس قدر مشغول ہے اور یہ شازہ اس لیے کہ فعل مجہول سے صیغہ نخب نہیں بنایا جاتا۔
 شَهْلَةٌ: مشغول کرنا (تشدید مبالغہ کے لیے ہے)۔
 تَشَهَّلُ وَتَشَاغَلُ وَاشْتَهَلَ بِكَذَا: مشغول ہونا۔ اِشْتَهَلَ قَلْبَهُ: جلائے افکار ہو کر پریشان ہونا۔ اِشْتَهَلَ لِغَيْبِ الشَّمْسِ: زہر کا اثر کرنا۔
 الدَّوَاءُ لِغَيْبِ: دوا کا مفید ہونا۔ وَتَشَاغَلَ عَنْهُ: غافل ہونا۔
 الشُّغْلُ وَالشُّغْلُ وَالشُّغْلُ: مصروفیت۔ مشغولیت۔ ج أَشْغَالٌ وَشُغُولٌ۔
 الشُّغْلُ بِرِي: بھراؤ۔
 الشَّاعِلُ: نا۔ مبالغہ کی صورت میں۔ ”أَتَانِي شُغْلٌ شَاغِلٌ“ کہا جاتا ہے۔
 الشُّغْلَةُ: اسم مرۃ۔ کلیمان۔ غلہ کا ڈھیر۔ ج شُغْلٌ۔
 الشُّغْلُ: کام میں لگا ہوا۔ مصروف۔
 الشُّغَالُ: بہت کام والا۔
 الْأَشْغَوْلَةُ وَالْمَشْغَوْلَةُ: کام۔ مشغلہ۔
 الْمَشْغُولُ: مضر۔ بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے ”مَكَانٌ مَشْغُولٌ“ بھری ہوئی جگہ۔ دَارٌ مَشْغَوْلَةٌ: آبار

گمر۔ جَارِيَةٌ مَشْغَوْلَةٌ: شوہر والی۔ مَالٌ مَشْغُولٌ: تجارت و کاروبار میں لگا ہوا مال۔
 الشَّعِيمُ: لالچی۔ بہت حرص۔
 الشَّعْمُومُ وَالشَّعِيمِمْ: خوبصورت لہیا۔
 الشَّعْنَةُ: ترشٹی۔ ج شَعْنٌ۔
 الشُّغْبُ وَالشُّغْبُوبُ: نازک و ترشٹی۔
 شَعْتٌ تَشْفُو شُغْوًا وَشَعِيْتُ تَشْفِي شُغَا۔
 السِّنُّ: ایک دانت کا دوسرے دانتوں سے بڑھنا۔
 نَابِسْوَارٌ ہونا۔ دانت کی صفت۔
 شَاغِيَةٌ: ج شَوَاغٌ اور ایسے دانت والے کو (أَشْفِي) اور مؤنث کے لئے (شُغْوَاءُ وَشَغِيَاءُ) ج شُغْوٌ۔
 أَشْفِي إِشْفَاءً: الْقَوْمُ بِه: لوگوں کی مخالفت کرنا۔
 فَلَانٌ زَائِيَةٌ: پریشان کرنا۔
 الشُّغْوَا: عتاب۔
 شَفٌ (ض) شُفُوْفَاوُ شَفِيْفَاوُ شَفْفَا: الشَّىءُ: اتا باریک ہونا کہ دوسری طرف کی چیز نظر آئے۔ صفت (شَفِيْفٌ وَشَفْفٌ) عَنْهُ الْقَوْمُ: کپڑے کا چھوٹا ہونا۔ تنگ ہونا۔ (شُفُوْفَا) الْجِسْمُ: بدن کا ڈبلا ہونا (شَفَا) الشَّىءُ: زیادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے ”شَفَّفْتُ عَلَيْهِ“ تم نے اس پر زیادہ کیا۔ کم ہونا۔ گھٹنا۔ ”هَذَا دِيْهَمٌ شَفْفٌ قَلِيْلًا“ یہ درہم کچھ کم ہے۔ حرکت کرنا۔
 لَهُ الْأَمْرُ: قائم رہنا۔ ہمیشہ رہنا (شَفِيْفًا) فَمَ فَلَانٌ: دانتوں اور مسوڑوں میں سردی کی وجہ سے درد ہونا۔
 شَفَّةٌ (ن) شَفَاوُ شُفُوْفَاوُ شَفْفَةٌ: الْمَرْضُ أَوْ الْهَمُّ: کمزور کرنا۔ ڈبلا کرنا۔ شَفَّ النَّعَاءُ: سب پانی پی لینا۔
 أَشَفَّةٌ عَلَى فَلَانٍ: بغضت رہنا۔ أَشَفَّ الْقَمُّ: منہ کا بدبودار ہونا۔ أَشَفَّ عَلَى فَلَانٍ: سبقت لے جانا۔ بڑھنا۔ دِيْهَمٌ: زیادہ کرنا یا کم کرنا۔
 إِشْفَفْتُ وَتَشَفَّفْتُ: ماضی الإناء: برتن سے سارانی جانا اور کہا جاتا۔ ”إِشْفَفْتُ الْجَبِيْتُ الْجَزَامُ“ اونٹ نے سارے تنگ کو گھیر لیا۔
 إِشْفَفْتُ: لَهُ السِّنُّ: پردے کے پیچھے کی چیز نظر آنا۔ الْقَوْمُ: کپڑے کے خوب کو

دیکھنے کے لیے روشنی میں پھیلاتا۔
 الشَّىءُ: دیکھنا اور معلوم کرنا۔ الْكِتَابُ: غور کرنا۔
 ہ: پار کی چیز دیکھنا۔ ماضی الإناء: برتن سے سب پی لینا۔ پوری پوری رغبت کرنا۔
 فِي تَجَاوِزِهِ: تجارت میں فائدہ اٹھانا۔
 الشَّفُّ وَالشَّفِيْفُ: کھڑا یا باریک پردہ۔ کہا جاتا ہے ”ثَوْبٌ شَفٌّ وَشَفِيْفٌ“ باریک کپڑا۔ ہوا۔ زیادتی۔ نقصان۔ ایک قسم کی بدبودار پھنسی۔ ج شُفُوْفٌ۔ الشَّفِيْفُ: تھوڑی چیز۔
 الشَّفِيْفُ: ہم۔ آفتاب کی سخت گرمی۔ سردی کی شدت۔ ٹھنڈی ہوا۔ ج شَفْفَا ثَوْبٌ شَفِيْفٌ: باریک کپڑا۔
 الشَّفْفُ: ہم۔ کم۔ ہلکا پن۔ بدحالی۔
 الشَّفَانُ: بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا۔
 الشَّفَاغَةُ: برتن کا بقیہ پانی۔ شَفَاغَةُ النَّهَارِ: دن کا بقیہ حصہ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ أَشَفَّ مِنْ فَلَانٍ“ فلاں فلاں سے کچھ تھوڑا سا بڑا ہے۔
 الْمَشْفُوْفُ: بدبودار پھنسیوں والا۔
 شَفَّرٌ وَاشْفَرٌ: الْقَوْمُ: تتر بتر ہونا۔ پر آگندہ ہونا۔ إِشْفَرُ الْعُوْدُ: ٹوٹا۔ السَّوَاجُ: زیادہ چوڑی بنی کاہوتا۔
 شَفَّنَ شَفْنَةً: جمع کرنا۔
 شَفَّرَ (س) شَفَارَةٌ: گھٹنا۔ کم ہونا۔
 شَفَّرَ: الْعَالُ: کم ہونا۔ الشَّفْسُ: آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔ عَلَى الْأَمْرِ: متوجہ ہونا۔ الشَّىءُ: جڑ سے اکھیرنا۔
 الشُّفْرُ وَالشُّفْرُ: ج أَشْفَارٌ وَالشَّفِيْرُ: پلک کی جڑ۔ ہر چیز کا کنارہ۔ مِنْ الْوَادِي: وادی کا بالائی کنارہ۔ کہا جاتا ہے ”مَضَاهِي الدَّارِ شَفْرٌ وَشُفْرٌ وَشَفْرَةٌ“ گھر میں کوئی نہیں۔
 الشُّفْرَةُ: بڑی چوڑی چھری۔ نکواری دھار۔ نیزے کے پھل کا پہلو۔ سوچی کی راہی۔ ج شَفْرٌ وَشَفَارٌ وَشَفْرَاتٌ: الشُّفْرَةُ: نوکر۔ خادم۔ پیش (مشقرف) تنگ زندگی۔
 الْمِشْفَرُ: شدت۔ روک۔ زمین یا ریگستان کا

دیکھنا۔ صفت (شَافِيٌّ وَشَفْوُنٌ)
 الشَّفْوُنُ وَالشَّفْوُنُ: زيرک و دانہ۔ الشَّفْوُنُ:
 انتظار۔ مہراث کا شجر۔
 الشَّفْوُنُ: بہت غیرت مند جس کی نگہ شدت
 حذر کی وجہ سے نظر کرنے سے نہ ٹھگے۔ ج
 شَّفْوُنُ۔
 الشَّفْوَتْرِي وَالشَّفْوَتْرِي: متفرق۔
 شَفْهَةٌ (ف) شَفْهًا: فُلَانًا: ہونٹ پر مارنا۔
 اصرار کر کے سوال کرنا اور سب کچھ خرچ کر دینا
 _____ الانَاء: سب بی کر خالی کر دینا۔ "كَادَتْ
 الْعِيَالُ تَشْفَهُ مَالِي" قریب ہے کہ میرے مال و
 عیال میرے مال کو ختم کر دیں _____ هُ عَنِ
 الْأَمْرِ: غافل کر دینا۔
 شَفْهَةٌ: زَيْدٌ: بہت سائلین کا ہونا _____
 الشَّيْءُ: بہت طالبین کا ہونا _____ الطَّعَامُ:
 بہت کھانے والوں کا ہونا۔ صفت (مَشْفُوَةٌ)
 شَافَهُةً شَفْهًا وَ مَشَافَهُةً: رورور رو ٹھٹھو کرنا
 _____ الشَّيْءُ: قریب ہونا۔
 الشَّفْهَةُ وَالشَّفْهَةُ: مِنَ الْإِنْسَانِ: ہونٹ۔ ج
 شَفْهًا وَشَفْهَاتٍ اور نبت کے لیے (شَفْوِيٌّ
 وَشَفْوِيٌّ وَشَفْوِيٌّ) اور تغیر (شَفْهِيَّةً) کہا جاتا
 ہے "هُوَ خَفِيْفُ الشَّفْهَةِ" وہ سوال کرنے میں
 بہت اصرار کرنے والا یا کم سوال کرنے والا ہے۔
 (ضد) و "لَهُ فِي النَّاسِ شَفْهَةٌ حَسَنَةٌ" اس کی
 لوگوں میں اچھی شہرت ہے۔ و "مَا أَحْسَنَ شَفْهَةَ
 النَّاسِ عَلَيْنَا" تمہارے متعلق لوگوں کی
 تعریف کس قدر اچھی ہے۔ و "مَا كَلَمْتُهُ يَبِيْتِ
 شَفْهَةٍ" میں نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔
 شَفْهَةُ الشَّيْءِ كَالدَّلْوِ: ڈول جیسی چیز کا کنارہ۔
 الشَّافِيَّةُ: پیاسا۔
 الشَّفْهَاتِي وَالْأَشْفَاقُ: بڑے ہونٹوں والا۔
 الْحَزْوُوفُ الشَّفْهِيَّةُ: ہونٹوں سے نکلنے والے
 حروف اور وہ ب ف ہیں۔
 الْمَشْفُوَّةُ: مَمَّ: مَاءٌ مَشْفُوَةٌ: ایسا پانی جس پر
 بہت پیئے والے آتے ہوں اور کہا جاتا ہے
 "فُلَانٌ مَشْفُوَةٌ عَنَّا" یعنی فلاں ہم سے غافل
 ہے اس کے پاس کثرت سے لوگ آتے ہیں۔ و
 "هُوَ مَشْفُوَةٌ الْعَوَادِ" وہ بڑا سمان نواز اور

هُوَ أَمُّ وَفُو" کیا وہ نعت ہے یا طاق۔ ج أَشْفَاعُ
 وَشِفَاعٍ۔
 الشَّفْعَةُ: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: زَمِيْنٌ يَأْمُرُ
 بِمَسَاجِدِ كِي وَجْهٍ سَعِ حَقِّ خَرِيْدٍ: دیوانگی۔ آگھ
 _____ مِنَ الضَّحَى: چاشت کے وقت دو
 رکعتیں۔ ج شَفْعٍ۔
 الشَّافِعُ: فَا: نَاقَةٌ شَافِعٌ: بچے والی حاملہ
 اونٹنی۔ عَيْنٌ شَافِعَةٌ: کمزوری سے ایک کو دو
 دیکھنے والی آگھ۔ نَاقَةٌ (شَفْوَعٌ) ایک دفعہ کے
 دو سنے میں دو برتن بھرنے والی اونٹنی۔
 الشَّفْوِيْعُ: سفارش کرنے والا۔ ج شَفْعٌ وَالْأَجْرُ:
 شَفْعَاءُ الشَّفِيْعِ مِنَ الْعَدُوِّ: نعت۔
 الْأَشْفَعُ: لِبَا۔
 الْمَشْفَعُ: وہ شخص جس کی سفارش مقبول ہو۔
 الْمَشْفَعُ: سفارش قبول کرنے والا۔
 الْمَشْفُوْعُ: پاگل دیوانہ۔ اِمْرَأَةٌ مَشْفُوْعَةٌ:
 نظردہ لگی ہوئی عورت۔
 شَفْوِيْقُ (س) شَفْقًا: عَلَيْنِهِ: مہربان ہونا۔ خیر
 خواہی و اصلاح کا خواہش مند ہونا۔ صفت "شَفْوِيْقٌ
 وَشَفْوُوْقٌ وَشَفِيْقٌ شَفْقٌ مِنَ الْأَمْرِ: خوف کرنا۔
 لاج کرنا _____ عَلَي الشَّيْءِ: نجل کرنا۔
 شَفْقَةً: مہربان بنانا۔ شَفْقُ الشَّيْءِ: کم کرنا
 _____ النَّوْبُ: کپڑا خراب بننا۔
 أَشْفَقُ الشَّيْءُ: کم کرنا _____ عَلَيْنِهِ وَنُهُ: کسی
 سے چو کنا رہنا۔ خوف کرنا۔ لاج کرنا _____ عَلَي
 الصَّغِيْرِ: مہربان ہونا _____ الرَّجُلُ: شفق کا
 وقت پانا _____ الرَّيْحُ: ہوا کا تیز ہونا اور خاک
 اُزَانًا۔
 الشَّفَقُ: مَمَّ: غروب آفتاب کے بعد آفتاب آسمان
 کی سرخی۔ مہربانی۔ رومی چیزیں، دن۔ خوف۔
 جَانِبُ نَوْبٍ شَفَقٌ كَزُرِّ كِرْزٍ: ج أَشْفَاقُ۔
 الشَّفَقَةُ: مہربانی۔ رحمت۔ خوف کے ساتھ
 مہربانی۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْنِي مِنْهُ شَفَقَةً" اس پر
 مجھے ترس آیا۔ "وَلِي عَلَيْنِهِ شَفَقَةٌ" مجھے اس پر
 ترس ہے۔
 الْمَشْفَلَةُ: اوجہ۔ ج شَفَالٍ۔
 شَفَقٌ (ض) وَشَفْوِنٌ (س) شَفْوَانًا: الرَّجُلُ
 وَالْمِي الرَّجُلِي: ترجمی نظر سے دیکھنا یا نظر اعراس

نکلنا۔ ہونٹ۔ اونٹ کے ہونٹ کے لیے خاص
 طور پر مستعمل ہے۔ ج مَشَافِرٍ۔
 الشَّفَارِجُ: میوہ وغیرہ رکھ کر محفل میں لانے
 کی تھاں۔
 شَفْوَةٌ (ض) شَفْوَاتُ: لَاتُ: مارنا۔ ٹھوکر مارنا۔
 شَفْشَفَ الرَّجُلُ: کاہنہ بد خلق ہونا۔ صفت
 (مَشْفِيْفٌ وَمَشْفِيْفٌ) _____ بِه: غلط لفظ
 ہونا _____ الدَّوَاءُ عَلَي الْحَزْوَجِ: زخم پر دوا
 چھڑکانا _____ الْهَمُّ فُلَانًا: ڈبلا کرنا _____
 الصَّيْبِغُ النَّبَاتُ: پالے کا نباتات کو جلا دینا۔
 خنک کر دینا _____ الْحَزْوُ وَالْيَزْدُ الشَّيْءِ: خشک
 کرنا _____ عَلَيْهِ: ڈرنا۔
 تَشْفَشَفَ النَّبَاتُ: خشک ہونے لگنا۔
 الشَّفْشَافُ: اولوں والی بارش۔ عوام فقنات
 کہتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا۔ نَوْبٌ شَفْشَافٌ: چھدر
 بنا ہوا کپڑا۔
 شَفْعٌ (ف) شَفْعًا: الشَّيْءِ: چوڑا کرنا۔ دہرا
 کرنا۔ کہا جاتا ہے "كَانَ وَثْرًا شَفْعَةً بَأَحْر" وہ
 طاق تھا اس نے دو سر اٹا کر نعت کر دیا _____
 جَارَةٌ: بڑوسی کو حق شفعہ دینا _____ النَّاقَةُ:
 ایک بچہ ہوتے ہوئے حاملہ ہونا۔ تم کہتے ہو
 (شَفْعٌ) لِي الْأَشْخَاصِ: نظر کی کمزوری سے
 ایک چیز دو دکھائی دینا۔ آگھ کی صفت (مَشَافِقَةٌ)
 شَفْعٌ (ف) شَفْعًا: لِفُلَانٍ أَوْ فِيهِ أَلِي زَيْدٍ:
 سفارش کرنا۔ شَفْعٌ عَلَيْنِهِ بِالْعَدَاوَةِ: کسی کے
 خلاف دوسرے کی مدد کرنا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ
 يُعَادِيْنِي وَلَهُ شَافِعٌ" فلاں شخص مجھ سے دشمنی
 کرتا ہے اور اس کے لیے میری عداوت میں
 ایک شخص مددگار ہے _____ لِفُلَانٍ فِي
 الْمَطْلَبِ: کسی کے لیے کوشش کرنا۔
 شَفْعُ الشَّيْءِ: نعت بنانا۔ شَفَعْنِي فِي فُلَانٍ:
 سفارش قبول کرنا۔
 تَشَفَّعَ لِي وَالْمِي لِفُلَانٍ أَوْ فِيهِ فُلَانٍ:
 سفارش کرنے کو کہنا۔
 اِسْتَشْفَعُ زَيْدًا إِلَى عَمْرٍو: سفارش کرنے
 کی درخواست کرنا _____ لِفُلَانٍ عَلَي فُلَانٍ:
 مدد طلب کرنا۔
 الشَّفْعُ: مَمَّ: نعت۔ مدد۔ کہا جاتا ہے "أَشْفَعُ

<p>_____ فی الکلام او الخصومة : ادھر ادھر ہٹ جانا _____ الطريق فی الفلاة : بیابان میں راستہ طے کرنا۔</p>	<p>یاب ہونا۔ الشفاء۔ مہ۔ دوا۔ مجاز ہے اس لیے کہ سب کا نام دہر رکھا گیا جو مستب کا تھا) ج اشفیت ج اشاف۔</p>	<p>ہمت داود ہمیش والا ہے۔ شفاً یشفو شفو الہلال : چاند کا طلوع ہونا _____ الشفخص : ظاہر ہونا _____ الشمس : آفتاب کا غروب کے قریب ہونا</p>
<p>الشفق۔ مہ۔ شگاف۔ بچھن۔ صبح بچی ہوئی جگہ۔ مشقت۔ ہر چیز کا آدھا۔ ج شفق۔ الشفق۔ جانب۔ کنارہ۔ انسان کی ایک جانب جس چیز کی جانب تمہاری نظر ہو۔ مشقت۔ سگ بھائی۔ ہر چیز کا آدھا۔ کہا جاتا ہے "المائل بینی وبینک شق أو شق شعرة" مال میرے اور تمہارے درمیان برابر رہے۔</p>	<p>الشفافی۔ فا۔ من الأدویة و نحوہا : مفید دوا وغیرہ۔ الجواب الشافی : ایسا جواب جس میں پھر سوال کی ضرورت نہ ہو۔ الإشفی۔ سعالی۔ شو۔ ج۔ اشاف۔ شق (ن) شقان۔ الشی : پھاڑنا۔ جدا جدا کرنا۔ اور اسی سے ہے شق عضاء القوم "اس نے قوم کی جمیعت کو توڑ دیا۔" "شق فلان العصا" فلاں جماعت سے طلعہ ہو گیا۔</p>	<p>_____ الشفا۔ نئے چاند کا بقیہ حصہ جو ابھی غروب نہ ہوا ہو۔ ہر چیز کا حد و کنارہ۔ شتیہ شفقوان۔ ج أشفاء۔ آدمی کے لیے موت کے وقت اور چاند کے لیے چھنے کے وقت اور آفتاب کے لیے غروب ہونے کے وقت کہا جاتا ہے "ما بقی منه الإشفا" یعنی صرف تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ الأشفی۔ جس کے دونوں ہونٹ ملتے نہ ہوں۔</p>
<p>الشفقة والشقة۔ دور کا سفر۔ مسافت جس کو سافر طے کرے۔ راستہ جس کا طے کرنا چلنے والے کے لیے دشوار ہو۔ وہ جانب جہاں کا سافر تصد کرے۔ مشقت۔ ج شقق۔ الشفیق۔ دو حصوں میں بچی ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔ حقیقی بھائی۔ نظیر۔ الشفیقۃ۔ حقیقی بہن۔ باغوں کے درمیان سخت زمین۔ بہت بارش _____ من البزق : آفت آسمان میں پھینکنے والی بجلی۔ آدھا سیسی کا در۔ ج شقائق۔ شقائق النعمان : گل لالہ۔ واحد۔ شفقة النعمان۔ الاشق من الخیل : دو امیں بائیں دوڑنے والا گھوڑا۔ فرس اشق المنحزین : وسیع نتھوں والا گھوڑا۔</p>	<p>شق (ن) شقا و مشقة۔ الأمثر : دشوار ہونا _____ علی فلان : مشقت میں ڈالنا _____ البزق : بجلی کا وسط آسمان تک سیدھی پھیلتا _____ الفرس : دوڑنے میں ایک جانب کو بھگانا _____ شقوقا) البس : آگنا _____ ناب البعیر : دانت لگانا (_____ شقا) الصبیح : فجر طلوع ہونا۔ شق۔ الحطب : لکڑی پھاڑنا۔ چرنا _____ الکلام : بر محل کرنا۔ شاقہ شقاقاً و مشاقفة۔ مخالفت کرنا۔ دشمنی کرنا۔ تشفق۔ الحطب : لکڑی کا پھٹنا۔ چرنا۔ الفرس : گھوڑے کا دپلا ہونا اور کہا جاتا ہے "تشفقت عضاءہم بالبین" ان کا معاملہ تیزتر ہو گیا۔ تشافق۔ القوم : باہم مخالفت کرنا۔ باہم عداوت کرنا _____ الزجلان۔ باہم خوب جھگڑا کرنا۔ تشافوا ایباہم : ایک کا دوسرے کے کپڑوں کو پھاڑنا۔</p>	<p>شفی یشفی شفاء۔ اللہ فلاناً من المرض : تندرست کرنا۔ صحت یاب کرنا _____ فلاناً فلاناً : کسی کیلئے شفا مانگنا _____ الشمس : آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔ _____ وشفی (س) شفی الہلال : نئے چاند کا غروب ہونا۔ شفی۔ المرض : صحت پانا۔ تندرست ہونا۔ أشفی إشفاء۔ فلاناً : شفا مانگنا _____ علیہ : کنارے پر آگنا اور اسی سے ہے "أشفی المرض علی الموت" مریض موت کے کنارے پر آگنا _____ العلیل : حصول صحت سے باز رہنا (بہتر سلب کیلئے) _____ المسافر : آخری رات کی چاندنی میں چلنا _____ المرض : مفید دوا پانا۔ تم کہتے ہو "أشفی" یعنی مجھے کوئی ایسی چیز دو جس سے صحت حاصل ہو۔ أشفاء الشی : مفید چیز دینا۔ شفا حاصل کرانے والی چیز دینا۔ تشفی۔ من عیظہ : غصے سے ٹھنڈا ہونا اور کہا جاتا ہے "تشفی من فلان" یعنی اس نے اپنے دشمن کو ایسی تکلیف پہنچائی کہ جس سے اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا (_____ واشتفی) بکڈنا : شفا حاصل کرنا۔</p>
<p>المشقة والمشقاء۔ دشواری۔ محنت۔ ج مشاقق ومشقات۔ شقا(ف) شقا و شقوة۔ الثاب : دانت لگانا _____ شعر الزاس : ناگ لگانا اور سنگھا کرنا _____ راسہ : سر پھاڑنا _____ فلاناً : کسی کی ناگ پر مارنا۔ المشقا۔ ناگ۔ المشقا والمشقاء۔ المشقاء۔ سنگھا۔ شقق (ک) شقاخہ۔ قبیح ہونا۔ صفت (شقیح) شقق (ف) شققا الشی : توڑنا _____</p>	<p>شق (ن) شقا و مشقة۔ الأمثر : دشوار ہونا _____ علی فلان : مشقت میں ڈالنا _____ البزق : بجلی کا وسط آسمان تک سیدھی پھیلتا _____ الفرس : دوڑنے میں ایک جانب کو بھگانا _____ شقوقا) البس : آگنا _____ ناب البعیر : دانت لگانا (_____ شقا) الصبیح : فجر طلوع ہونا۔ شق۔ الحطب : لکڑی پھاڑنا۔ چرنا _____ الکلام : بر محل کرنا۔ شاقہ شقاقاً و مشاقفة۔ مخالفت کرنا۔ دشمنی کرنا۔ تشفق۔ الحطب : لکڑی کا پھٹنا۔ چرنا۔ الفرس : گھوڑے کا دپلا ہونا اور کہا جاتا ہے "تشفقت عضاءہم بالبین" ان کا معاملہ تیزتر ہو گیا۔ تشافق۔ القوم : باہم مخالفت کرنا۔ باہم عداوت کرنا _____ الزجلان۔ باہم خوب جھگڑا کرنا۔ تشافوا ایباہم : ایک کا دوسرے کے کپڑوں کو پھاڑنا۔ إشقی۔ الشی : شگاف دینا _____ الأمثر : پر آگندہ دپریشان ہونا _____ الفجوز : فجر طلوع ہونا۔ کہا جاتا ہے "إنشقت عضاءہم" ان کا معاملہ تیزتر ہو گیا۔ إشقی۔ الشی : آدھا لینا _____ الکلیمة من الکلیمة مشتق کرنا جیسے الضرب سے ضرب _____ الفرس فی عدوہ : دائیں بائیں جانا</p>	<p>إششفی۔ بہ : شفا پانا۔ کہا جاتا ہے "فلاناً یشتشفی بربہ" فلاں کی رائے سے شفا حاصل کی جاتی ہے _____ المرض من علیہ : صحت</p>

الْحُوْزَةُ: گرمی نکالنا _____ ہ اللہ: فتح بنانا
الکلب: کتے کا پیٹاب کرنے کے لیے
ثائب: اٹھانا۔

شَاقِحَةٌ مُشَاقِحَةٌ: باہم گال گلوچ کرنا۔

أَشْفَحَةٌ: دور کرنا (أَشْفَحَ وَشَفَّحَ وَشَفَّحَ الشُّبْرُ:
رنگ پکڑنا _____ التَّخُلُّ: درخت خراب چھوڑ
کا گدرد ہونا۔ کہا جاتا ہے (شَفَّحًا وَشَفَّحًا) لُءُ:
یعنی اس کے لیے دوری ہو۔

الأَشْفَحُ: سرخ زرد رنگ ملا ہوا۔ مَوْنَت
شَفَّحَاءُ: ج شَفَّحَ۔

الشَّفْحِيُّ: سرخ رنگ والا۔

شَفِّدٌ (س) شَفَّدًا: تیز نظر لگانے والا ہونا۔
بے نیند ہونا۔ صفت (شَفَّدَ وَشَفَّدَ وَشَفِّدُ
وَشَفِّدَانٌ)

شَفَّدَ (ض) شَفَّدًا وَشَفَّدَ (س) شَفَّدًا: دور
جانا۔

شَاقِدَةٌ: باہم دشمنی کرنا۔ دور کرنا۔

أَشْفَدَةٌ: دھکارنا۔

الشَّفْدُ وَالشَّفْدُ وَالشَّفْدُ: گرگٹ کا پچ۔ ج
شَفَّدَانٌ وَشَقَادِيٌّ: الشَّفْدُ: مہ۔ کہا جاتا ہے
"مَالَهُ شَفْدٌ وَلَا تَقْدُ" اس کے پاس کچھ نہیں "و
هَذَا النَّيْسُ بِهِ شَفْدٌ وَلَا تَقْدُ" اس میں کوئی خلل
اور نقصان نہیں۔

الشَّفْدَانُ: بھیڑیا۔ حشرات الارض: کیڑے
کوڑے۔ بھٹ۔ تیز وغیرہ کے چوزے۔

الشَّفْدَانُ: مہ ج شَفْدَانٌ وَ (الشَّفْدُ
وَالشَّفْدُ) گرگٹ۔ بھیڑیا۔

الشَّفْدَاءُ: بہت بھوکا عتاب۔

شَفَّرَ (س) وَشَفَّرَ (ك) شَفَّرًا وَشَفَّرَةً: سرخ
زرد رنگ کا ہونا۔ صفت (أَشْفَرُ) مَوْنَت شَفَّرَاءُ
ج شَفَّرَ۔

إشْفَرٌ: گہرا سرخ و زرد رنگ کا ہونا۔

الشَّفَرُ: امر مقصود و روپ۔ ج شَقُورٌ: کہا
جاتا ہے "أَفْضَيْتُ إِلَيْهِ شَقُورِي" میں نے
اپنے ان امور پر اس کو مطلع کروا جن کو دوسروں
سے چھپاتا تھا۔ "بَنَّهُ شَقُورَةٌ" اس نے اپنے
حالات کی اس سے فکایت کی۔

الشَّفَرُ: مرغ۔ جھوٹ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ

بِالشَّقْرِ وَالْبَقْرِ" وہ جھوٹ اور مصیبت لایا۔
الشَّقْرُ وَالشَّقْرَانُ وَالشَّقَارُ وَالشَّقَائِزُ:
ایک قسم کی سرخ رنگ کی نباتات یا گل لالہ۔

الشَّقْرَاقُ وَالشَّقْرَاقُ: فاختے سے بڑا ایک پرندہ
جس کو شَقْرَقُ اور شَقْرَقُ بھی کہتے ہیں۔

شَفَّشَقُ شَفَّشَقَةٌ: الخجل: اونٹ کا بلبلانا
_____ الظَّبْرُ: پرندہ کا آواز کرنا۔

الشَّفَشِقَةُ: بوقت مستی اونٹ کے منہ کے
جھاگ۔ ج شَفَاشِقُ اور فَصِحَ كَيْلِي "هَدْرَت
بَشَفِيقَتِهِ" کہا کرتے ہیں۔ و "فَلَانٌ شَفِيقَةٌ"
قَوْمُهُ" فلاں اپنی قوم میں شریف و فصیح ہے۔

شَقَّصُ: الذَّبِيحَةُ: ذبح کیے ہوئے جانور کو
حصہ داروں کیلئے کٹ کر برابر حصہ کرنا۔

الشَّقِصُ: حصہ۔ کسی چیز کا ٹکڑا۔ زمین کا قطعہ۔
الشَّقِيصُ: شریک۔ شرکت۔ حصہ۔ عمدہ گھوڑا۔

بہت میں سے گھوڑا۔

المِشْقِصُ: چوڑا پھل یا چوڑے پھل کا تیر۔ ج
مِشْقِصٌ۔

المِشْقِصُ: قصاب۔

الشَّقِيْطُ: مٹی کا ٹکڑا یا مٹی ہوئی مٹی۔

الشَّقِيْطُ: مٹی ہوئی مٹی۔

شَقَعَ (ف) شَقَعًا: فِي الْإِنَائِ: برتن میں منہ
ڈال کر پینا۔

الشَّقْفُ: ٹھیکری۔ ٹھیکری کے ٹکڑے واحد
(شَقْفَةٌ)

الشَّقَافُ: عِنْدَ الْبَنَائِيْنَ: لوہے کا بڑا ہتھوڑا۔
فَصِيحٌ لِقَطْعِ مِلْطَاسٍ أَوْ مِلْطَاسٍ۔

شَقَلٌ (ن) شَقَلًا: الدَّرَاجِمُ: توننا _____
المَزَاةُ: جماع کرنا۔

شَوْقَلٌ شَوْقَلَةٌ: طیم و رو بار ہونا۔

الشَّقَائِلُ: مَعْمَارُونَ كَمَا سَاهُولُ جَسَّ سَ مِنْ دِيوَار
کی ہمواری دیکھتے ہیں۔

شَقَنٌ (ن) شَقْنًا وَشَقْنٌ: العَطِيَّةُ: کم رہنا۔
وَأَشَقْنُ الرَّجُلُ: کم مال ہونا۔

شَقْنٌ (ك) شَقْنَةٌ: العَطَاءُ: کم ہونا۔ صفت
(شَقْنٌ وَشَقِيْنٌ وَشَقِيْنٌ)

المِشْقَنُ: بگاڑ (جو تے اور بو تے ہوئے کھیت کی
مٹی کے برابر کرنے کا آلہ)

شَقًا يَشْقُو شَقْوًا وَاشْقَى: اللہ فَلَانًا:
بد بخت بنانا۔ أَشْقَى شَعْرَهُ: کھنسی کرنا۔

شَقِيٌّ يَشْقَى شَقًا وَشَقَاءٌ وَشَقَاوَةٌ
وَشَقَاوَةٌ وَشَقْوَةٌ وَشَقْوَةٌ: بد بخت ہونا۔ صفت
(شَقِيٌّ) ج أَشْقِيَاءُ۔

شَقِيٌّ: فَلَانًا: بد بخت ہونے میں مقابلہ کرنا۔

تم کہتے ہو "شَقَائِفِي فِشَقْوَتِهِ" اس نے بد بخت
ہونے میں مجھ سے مقابلہ کیا میں غالب رہا یعنی

میں اس سے زیادہ بد بخت رہا _____ ہ فِئ
الحَزْبِ: لِزَائِيٍّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ شَاوَلُوا كَرَاهًا _____ ه

عَلَى كَذَا: صبر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

الشَّقَائِيٌّ: فَا _____ مِنَ الْجَبَالِ: پہاڑ کا لبا
نکلا ہوا گوشہ۔ ج شَقَائِقُ وَشَقِيَانٌ۔

الشَّقَاوُ الشَّقَاءُ: مہ۔ سختی۔ بد بختی۔
المِشْقِيُّ: کھنسی۔

شَكٌّ (ن) شَكًّا: فِي الْأَمْرِ: شبہ کرنا۔ صفت
فَاعِلِيٌّ (شَاكٌ) اور صفت مفعول (مَشْكُوكٌ) لِغِيهِ

عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مشتبہ ہونا _____ ہ بِالْوَضْعِ: بڑی
تک چھیدنا۔ شَكَّتِ الشُّوْكَةُ رَجُلًا: کانا

چھینا۔ شَكَّ الْقَوْمُ بَيُوتَهُمْ: گھروں کو ایک
طرز یا ایک قطار میں بنانا _____ الخَوَائِظُ

الْحَوْبُ: کپڑے میں دور دور ٹانگے لگانا _____
إِلَيْهِ الْبِلَادُ: طے کر کے پہنچنا _____ الشَّيْءُ إِلَى

الشَّيْءِ: ملانا _____ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا
_____ فِي السَّلَاحِ: ہتھیار بند ہونا۔ صفت

(شَاكٌ السَّلَاحِ وَشَاكٌ فِي السَّلَاحِ) ج
شَكَّاكٌ۔

شَكٌّ (س) شَكًّا: فَلَانًا وَإِلَيْهِ: ناکل ہونا۔
شَكَّكَ: ٹھک وشبہ میں ڈالنا۔

تَشَكَّكَ: فِي الْأَمْرِ: شبہ کرنا۔

الشَّكُّ: مہ۔ شبہ۔ بڑی میں تھوڑی سی درز۔
ایک دوا جو چوہوں کیلئے قاتل ہے۔ ج شَكُّوكٌ۔

الشُّكَّةُ: اسم نوع۔ ہتھیار۔ گدڑی وغیرہ کا چوہو
کھاڑے کے سوراخ کو ٹھک کرنے کیلئے لگاتے

ہیں۔ ج شَكَّكَ اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ
مُتَخَلِّفُ الشُّكَّةِ" فلاں مختلف اخلاق والا ہے۔

الشُّكَّةُ: مسافت۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا شَكَّةٌ
بَعِيدَةٌ" ان دونوں کے درمیان بڑی مسافت

درخت خراب پاک کرتا رہنا۔ الْكِتَابُ :
اگر اب لگانا۔ الشُّبُّ : مشکل ہونا۔
الْمَرِيضُ : بیمار کا صحت کے قریب ہونا۔
مُشَاكَلَةٌ مُشَاكَلَةٌ : مشابہ ہونا۔ موافق ہونا۔ کہا
جاتا ہے "فِي فَلَانٍ مُشَاكَلَةٌ مِنْ أَبِيهِ" اس میں
اس کے باپ کی مشابہت ہے۔
تَشَكَّلَ : صورت اختیار کرنا۔ الْعَيْبُ :
اگر کچھ کئے گئے۔

اِسْتَشْكَلَ وَاسْتَشْكَلُ : الْأَمْرُ : مشتبه ہونا۔
الشُّكْلُ : مہ۔ مشابہت۔ مٹ۔ نظیر۔ مشکل
محلہ۔ قصد و ارادہ۔ کہا جاتا ہے "سَأَلْتُهُ عَنْ
شُكْلِ فَلَانٍ" میں نے فلاں کے ارادہ کو
دریافت کیا۔ عورت کا ناز و انداز۔ محسوس یا متوہم
چیز کی صورت شکل مثلاً گولائی، کچی۔ سیدھا پن
دغیرہ۔ ج اشکال و مشکول۔ الأشکال :
چاندی یا موتیوں کے زیورات جو ایک دوسرے
کے مشابہ ہوتے ہیں اور جن کو عورتیں کان میں
پہنتی ہیں اور کہا جاتا ہے "أَمْوُؤُاْ أَشْكَالٌ" یعنی
مشتبه امور۔ شُكْلُ الْكِتَابِ : کتاب کی حرکت۔
الشُّكْلَةُ : ایک حرکت مثلاً زیر زبر یا پیش۔
الشُّكْلُ : شکل۔ عورت کا ناز و انداز۔

الشُّكْلَةُ : سرفی مائل بہ سفیدی ()
والمشاكل : مشابہت۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ شُكْلَةٌ
أَوْ شَاكِلٌ مِنْ أَبِيهِ" اس میں اس کے باپ کی
مشابہت ہے۔ اِمْرَأَةٌ (شُكْلَةٌ) ناز و انداز والی
عورت۔

الشُّكَالُ : جانور کا پائے بند۔ ڈوری جو اونٹ
کے پیش بند اور تنگ کے درمیان باندھتے ہیں۔
اگلی ٹانگ اور پچھلی ٹانگ باندھنے کا بندھن۔ ج
شُكْلٌ : الشُّكَالُ فِي الْخَيْلِ : تین ٹانگوں کا
سفید اور ایک دوسرے رنگ کا ہونا یا اس کے
برعکس۔

الشُّاكَالَةُ : الشُّاكَالُ : کامونٹ۔ شکل۔ جانب۔
جیسے شَاكَالَةُ الظَّرْبِيِّ : طریقہ مذہب۔ نیت۔
حاجت۔ کوکھ۔ ج شُواكِلُ : اور اسی سے ہے
"أَصَابَ شَاكَالَةَ الصُّوَابِ" اس نے طریقہ
صواب پایا۔ و "فَلَانٌ يَتْرُكُ مِنْ بِيْءِ الشُّوَاكِلِ"
یعنی فلاں وجوہ صواب کو پالیتا ہے۔ الشُّوَاكِلُ :

بڑے رستے سے نکلے ہوئے راستے۔ کہا جاتا ہے
هَذَا ظَرْبِيٌّ ذُو شُواكِلٍ : یہ راستہ ایسا ہے جس
سے مختلف راستے نکلے ہیں۔

الأشكَلُ : سفید مائل برقی۔ آنکھوں کی
سفیدی میں سرفی والا۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا
اشكَلٌ بِهِ" اس کے مشابہ ہے۔ ج شُكْلٌ :
الشُّكْلَاءُ : أَشْكَالُ كَامُونْتِ : حاجت۔

الشُّوَكْلَةُ : ناہیہ۔ جانب (الشُّوَاكِلُ) کا واحد
بمعنی عوسج۔ اور عوسج ایک کانٹے دار
درخت کا نام ہے۔

الأشكَلَةُ : التماس۔ مشابہت۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ
أَشْكَالَةٌ مِنْ أَبِيهِ" اس کے اندر اس کے باپ کی
مشابہت ہے۔ حاجت جو انسان کو پابند کر دے۔ تم
کہتے ہو "فَتَأْخُذُهُ أَشْكَالَةٌ" اس کے پاس ہماری
حاجت ہے۔

الشُّكَيْلُ : خون آمیز جھگ جو لگام کے لوہے پر
ظاہر ہو۔

المشكِل والمشكِلَةُ : أمر دشوار یا أمر
مشتبه۔ ج مشکائل و مشکيلات۔

المشكُولُ : مِنَ الْخَيْلِ : تین ٹانگوں میں
سفیدی اور ایک ٹانگ میں دوسرے رنگ والا۔
پائے بند سے بندھا ہوا۔

المشكُلُ : صورت و شکل والا۔
شُكْمَةٌ (ن) شُكْمًا : دبا۔ بدلہ دینا۔ فَلَانًا :
رشوت دینا۔

شُكْمَةٌ (ن) شُكْمًا وَشُكَيْمًا : دانت سے
کٹ لیتا۔

شُكِيمٌ (س) شُكْمًا : بھوکا ہونا۔

أَشْكَمُهُ : بدلہ دینا۔

الشُّكْمُ وَالشُّكْمِيُّ : ثواب۔ بدلہ۔ عطیہ۔

الشُّكْمِيُّ : شیر۔

الشُّكَيْمَةُ : تکبر۔ ظلم کی داو رسی۔ عمد۔

طبیعت چیتا۔ زہر۔ مشابہت۔ مِنَ اللِّجَامِ :
لگام کا وہ لہوا جو گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے۔ ج

شُكَايِمٌ وَشُكْمٌ وَشُكِيمٌ اور اسی سے ہے
"فَلَانٌ ذُو شُكَيْمَةٍ" او شُدَيْدُ الشُّكَيْمَةِ یعنی
ظلم خود دار اور غیرت مند ہے۔

شَاكِهَةٌ شَاكِهَاتٌ وَمُشَاكِهَةٌ : مشابہ ہونا۔

أَشْكَةُ الْأَمْرِ : دشوار ہونا۔

تَشَاكَيْهَا : باہم مشابہ ہونا۔

شُكَا يَشْكُو شُكْوَى وَشُكْوَا وَشُكَاةُ

وَشُكَاوَةٌ وَشُكَايَةٌ وَشُكَيْتَةٌ : إِلَيْهِ زَيْنًا :

شکایت کرنا۔ شکایت کرنے والے کو (ضالک) جس

کی شکایت کی جائے اس کو (مَشْكُوٌّ وَمَشْكِيٌّ)

اور جس سے شکایت کی جائے اس کو (مَشْكُوٌّ)

إِلَيْهِ اور شکایت کو (شُكْوَى) کہتے ہیں۔ شُكَا

الْأَمْرِ او الْعِلَّةُ : ذکر کرنا یا درو مند ہونا۔

مَرَضُهُ لِلطَّبِيبِ : طبیب سے مرض کی کیفیت

بیان کرنا۔ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ : ظاہر کرنا۔

شُكَا يَشْكُو شُكْوَا وَشُكْوَى وَشُكَاةُ

الْمَرْضَى فَلَانًا : الم پہنچانا۔ درو مند ہونا۔

شُكَيْتٌ تَشْكِيَةٌ : الشَّكِي : شکایت قبول کرنا۔

أَشْكِي إِشْكَاءً : فَلَانًا : شکایت قبول کرنا۔

شَاكِي : پانا۔ کسی کے سامنے شکایت اور کلمات

شوق کو بیان کرنا۔ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ

وہ شکایت کرنے پر مجبور ہو۔ کسی سے شکایت کو

زائل کر دینا۔ فَلَانًا مِنْ فَلَانٍ : کسی سے

کوئی چیز کسی کی خوشنودی کے لیے لیتا۔ کہا جاتا

ہے "هُوَ يَشْكِي بِكَذَا" وہ فلاں چیز کے ساتھ

مشمگم ہے۔

شَاكَاهُ : شکایت کرنا۔

تَشَكَّى : بیمار ہونا۔ إِلَيْهِ : شکایت کرنا۔

مِنْ جُزْجٍ : درو مند ہونا۔

إِشْكِي : بیمار ہونا۔ إِلَيْهِ : شکایت کرنا

مِنْ جُزْجِهِ : درو مند ہونا۔

تَشَاكَيْ تَشَاكَيًْا : الْقَوْمُ : باہم ذکر شکایت

کرنا۔

الشُّكُوُّ وَالشُّكْوَى وَالشُّكَاءُ وَالشُّكَاةُ

وَالشُّكْوَاءُ : بیماری۔ الشُّكْوَى : جس چیز کی

شکایت کی جائے۔ ج شُكَاوَةٌ : الشُّكُوُّ : چھوٹا

اونٹ۔

الشُّكْوَةُ : شُكَاكَاسِمٌ مَرَّةً : شُكُوٌّ بمعنی مرض

کا واحد ج شُكُوَاتٌ وَشُكَاةٌ ()

وَالشُّكَيْتَةُ الْإِنْيَانِيَّةُ : یاد دہندہ کا پڑے کا برتن۔

الشُّكِيُّ : جس کی شکایت کی جائے۔ درو مند۔

مَرَوْتٌ شُكَيْتَةٌ : ج شُكَايَاتٌ () وَالشَّكَايِ

شَلَقَةٌ (ن) شَلَقًا لِمَا يَهْرَأُ تَابًا حِرْتًا _____ هـ :
 بالسَّوْطِ : کوڑے سے مارنا۔
 الشَّلِقُ والشَّلِيقُ : نرم کانٹوں والی ایک مچھلی۔
 جَ اشَلَقَ :
 الشَّلِقَاءُ : چھری۔
 الشَّلَقَةُ والشَّلَقَةُ : گوہ کے اٹڑے۔
 الشَّلَقَةُ : گھوڑوں کو سدھانے والے۔
 الشَّلَقَةُ : سوگری جس سے کسی چیز کو توڑیں۔
 الشَّلَاقِيُّ : فقیروں کا تھیلا۔
 الشُّوْلَقِيُّ : مٹھالی بیچنے والا یا مٹھالی کی زیادہ خواہش رکھنے والا۔

المِشْلِيقُ : بستے وقت نہ کھولنے والا۔
 الشَّيْطَانُ الشُّوْلَيْمُ والشَّالِمُ : ایک قسم کا کڑوا دانہ جو گیہوں میں پیدا ہوتا ہے۔

الشَّلْمُ : چنگاری۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ يَنْطَلِقُ بِشَلْمِهِ" فلاں کے فصرہ کی وجہ سے چنگاری اُڑ رہی ہے۔

شَلَا يَشْلُو شُلُوًا : چلنا _____ الشُّي : بلند کرتا۔

أَشْلَى إِشْلَاءً : الكَلْبُ عَلَى الصَّيْدِ : کتے کو شکار پر آسانا۔ بھڑکانا _____ الشَّاقَّةُ : اونٹنی کو دو بے یا چارہ کے لیے بلانا۔

إِشْتَلَى : فَلَاقًا : چمڑانا۔

إِسْتَشَلَى : غَفْبَتًا : ہونا _____ ہ چمڑانا۔

الشُّلُو : عَفْصُو : اونٹنی کا بچہ۔ ہر پوست کشیدہ جس میں کچھ کھالی گیا ہو اور کچھ باقی رہ گیا ہو۔ جَ اشْلَاءً : اشْلَاءُ اللَّجْجَامِ : لگام کے تے جو پرانے ہوں۔ اشْلَاءُ الْإِنْسَانِ : اعضاء انسانی۔ کہا جاتا ہے "بَنُو فُلَانٍ اشْلَاءٌ فِي بَنِي فُلَانٍ" بنو فلاں بتایا ہیں بنو فلاں کے۔

الشُّلُو والشْلَاءُ : ہر چیز کا جسم۔

الشُّلَى : ہر چیز کا ٹھکانا۔

الشُّلَيْتَةُ : مال کا بقیہ۔ گوشت کا ٹکڑا۔ جَ اشْلَايَا۔

المِشْلَى : لاغرو تحیف۔

شَمَّ (س ن) شَمًّا وشَمِيمًا وشَمِيمِي :
 الوُزْدُ : گلاب کا پھول سو گھٹنا (_____ شَمَمًا)
 تَكْبَرُ كَرًا : التَّجْبِيلُ : أو الألف : چوٹی بلند ہونا۔

صفت (أشَمُّ وشَمِيمٌ)

آئے۔
 الشَّلَّةُ : اسم مرة (_____ والشَّلَّةُ والشَّلَى)
 دور کا مقصد۔ جنت ستر۔

الشَّلِيلُ : اولی کپڑے کا ٹکڑا جس کو کپادہ کے پیچھے جانور کے سرین میں ڈالنے ہیں۔ چھوٹی زرہ جو بڑی زرہ کے نیچے پٹی جائے۔ کرتہ جو زرہ کے نیچے پہنا جائے۔ دادی میں پانی پینے کا برتن۔ جَ اشْلَةً۔

الشَّلَالُ : آبشار۔ جَ اشْلَالَاتٍ۔

المِشْلُ : گردن پر ڈالنے کا کپڑا۔ جَ اشْلُ مِشْلٌ : سبک دست۔ تیز۔ خوش مزاج۔

شَلَحَةٌ : تَشْلِيحًا : شکار۔

الشَّلْحَاوُ الشَّلْحَى : تیز تلوار۔ جَ شَلْحٌ :
 المشْلُحُ : تمام کا کرہ جس میں کپڑے آتارے

جائیں۔

شَلَحَهُ (ن ف) شَلَحًا : بالسَّيْفِ : تلوار سے کاٹنا۔

الشَّلْحُ : صہ۔ اصل۔ بڑ۔ آدمی کی اولاد۔ کہا جاتا ہے "هُوَ شَلْحُ سُوءٍ" وہ بڑی اولاد ہے۔

شَلَّشَلَّ شَلَّشَلَّةً وشَلَّشَلًا : الماءُ : پانی چمکانا _____ الماءُ وبالماءُ : پانی متفرق چمکانا _____

الماءُ : پانی چمکانا _____ السَّيْفُ الدَّمُ : گراتا۔ صفت مفعولی (شَلَّشَلَّ وشَلَّشَلَّ وشَلَّشَلَّ) تَشَلَّشَلَّ : الماءُ : پانی کا پھینکانا۔ ٹھمرنا _____

السَّيْفُ بِالدَّمِ : گراتا۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ وَجُزْأُهُ يَتَشَلَّشَلُّ ذَمًّا" وہ اس حال میں آیا کہ اس کے زخم سے خون ٹپک رہا تھا۔

الشَّلَّشَلَّ : لپکنے والی منگ۔ ماءً شَلَّشَلَّ : لگا تار لپکنے والا پانی۔ ماءً ذُو شَلَّشَلَّ : لپکنے والا پانی۔ (الشَّلَّشَلَّ والشَّلَّشَلَّ) : من الرِّجَالِ : تیز و سبک دست۔ خوش مزاج۔

الشَّلَطُ والشَّلَطَاءُ : چھری۔

الشَّلِظَةُ : باریک اور لمبا تیز۔ جَ شَلَطَ۔

شَلَعُ (ف) شَلَعًا : الرِّاسُ : چلانا۔ توڑنا۔

الشَّلْفُ : مِنَ الْحَيْدِيْدِ عِنْدَ الْعَامَةِ : لوہے کی سلاخ۔

الشَّلَؤُفُ : عِنْدَ الْعَامَةِ : آبشار۔ آبشار گرنے کی جگہ۔

الشَّلَافَةُ : مِنَ النِّسَاءِ : بدکار عورت۔

معمولی پیار زجل شاکھی السِّلَاحُ : ہتھیار بند صاحب شوکت و رعب مرد (یہ شانک کا مقلوب ہے)۔
 الشُّكَاةُ : عیب۔

المِشْكَاةُ : طاق۔ چراغ رکھنے کا طاق۔ چراغ دان۔

شَكِي يَشْكِي شَكِيًا : إِلَيْهِ : شکایت کرتا۔
 الشُّكِيَّةُ : بقیہ۔

شَلَّ (ن) شَلًّا : الشُّوْبُ : کپڑے میں ٹکلی سلائی کرتا۔ شَلَّتِ الْعَيْنُ دَمْعَهَا : آنکھ کا آنسو بنانا _____ الدُّعُغُ وشَلَّهَا عَلَيْهِ : زرہ پہننا _____ الشُّي : کاٹنا۔

شَلَّ (ن) شَلًّا وشَلَلًا : الأَبِلُ : اونٹوں کو بھگانا۔ دھکانا۔ کہا جاتا ہے "مَرَّ فُلَانٌ يَشْلُهُمْ بِالسَّيْفِ" فلاں گزر رہا اس حال میں کہ لوگوں کو تلوار سے بھا رہا تھا۔ والشَّيْحُ يَشْلُ الظَّلَامَ" صح تار کی کو دور کر دیتی ہے۔

شَلَّتْ (س) شَلًّا وشَلَلًا وشَلَّتْ وَأَشْلَيْتَ إِشْلَالًا : يَذُّهُ : خشک ہونا۔ لچھا ہونا۔ ایسے ہاتھ کو (شَلًّا) اور ایسے ہاتھ والے کو (أَشْلًا) کہتے ہیں۔ جو مضمض اچھی طرح تیر چلائے یا تیرہ بازی کرے اس کے لیے ذمہ کے طور پر کہتے ہیں "لَا شَلَّتْ يَذَاك أَوْ لَا شَلَّتْ عَشْرُكَ" تمہارے ہاتھ یا تمہاری دس انگلیاں بیکار نہ ہوں۔

أَشْلٌ : بہا ہاتھ والا ہونا۔

إِنْشَلَّ : المَطْرُ : برسا _____ السَّيْلُ : سیلاب بڑھنا شروع ہونا _____ الذَّنْبُ فِي الْعَيْمِ : بھیرے کا کبڑوں میں تباہی ڈالنا۔

إِنْشَلَّتِ الأَبِلُ : بھگانا۔

شَلَّلَ : جنی علی انکر : شَلَّلَ كَأَسْمٍ ہے۔ تیر انداز کے لیے ذمہ کے موقع پر کہا جاتا ہے "لَا شَلَّلَ" : بمعنی لَا شَلَّتْ يَذَاك۔

الشَّلَّلُ : صہ۔ کپڑے کا داغ جو دھونے سے بھی نہ جائے۔ ہاتھ کی خرابی۔

الشَّلَّلُ والشَّلَّلُ والشَّلَّلُ : تیز۔ خوش مزاج۔

الشَّلَالُ : متفرق لوگ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ القَوْمُ شِلَالًا" اونٹوں کو بھگاتے ہوئے لوگ

شَمَّهٗ آزمائش کیا جانا۔

شَمَمَ الزَّهْرُ: پھول سوگھنا۔ ہ
الزَّهْرُ: پھول سوگھانا۔

أَشَمَّ سِرًا تَحْرُكُ الزُّرْدُ: گلاب کا پھول سوگھانا۔ عَنِ الْأَمْرِ: الگ ہونا۔ جُنَا:

أَشَمَّ الْقَارِئُ الْحَرْفَ: اَشْمَامُ کر کے وقف کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَشْمَفْنِي بَدَكَ" مجھے اپنا ہاتھ دو۔ و "عَرَضْتُ عَلَيْهِ كَذَا فَإِذَا هُوَ مُسِمٌّ لَا يُرِنْدُهُ" میں نے اس پر فلاں چیز پیش کی اس نے ناک بھوں چڑھالی۔ اس کی خواہش اسے نہیں۔

شَاثًا مُشَاثَةً وَتَشَاثَا تَشَاثَا: ایک دوسرے کو سوگھنا۔

إِشْتَمَّ الشَّيْءُ: سوگھنا۔

تَشَمَّمَهُ: آہستہ آہستہ سوگھنا۔

إِسْتَشَمَّهُ: سوگھنے کی درخواست کرنا۔ سوگھنا۔

الشَّمُّ: مہ۔ سوگھائی۔

الشَّمَامَةُ: سوگھنے کی حس۔

الشَّمَمُ: مہ۔ نزدیکی۔ دوری (ضد) ناک کے بانسہ کی بلندی حسن و بھواری کے ساتھ۔

الشَّمِيمُ: مہ۔ بلند۔ عمدہ خوشبو۔

الْأَشَمُّ: مغرور سردار۔ کریم۔ اونچی ناک والا۔

مَوْتٌ شَمَاءَ جِ شَمِّ:

الشَّمَامُ وَالشَّمُومُ: بست سوگھنے والا۔

الشَّمَامُ: ایک قسم کا زرد رنگ کا خربوزہ۔ واحد (شَمَامَةٌ) جِ شَمَامَاتٍ۔ الشَّمَامَاتُ: عمدہ خوشبوئیں۔

الإِشْتَامُ: عِنْدَ الْقُرْآنِ وَالنَّحْوِ: بجز آواز کے ہونٹ سے حرکت کی طرف اشارہ کرنا۔

المَشْمُومُ: مہ۔ جو چیز سوگھنے سے معلوم ہو۔ مہک۔

شَمِيتٌ (س) شَمَانًا وَشَمَانَةً: بفلان: کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ صفت فاعلی۔

(شَامِتٌ) جِ شَمَاتٍ۔ اور صفت مفعولی (مَشْمُوتٌ) بہ۔

شَمَّتْ: العاطسُ وَشَمَّتْ عَلَيْهِ: يَرَحِمَكَ اللَّهُ کہہ کر دعا کرنا۔ یا دعا کرنا کہ ایسی حالت میں جلتا ہو جس پر کسی کو شامت کا موقع

طے۔ ہ۔ محروم کرنا۔ شَمَّتَ بَيْنَهُمَا: جمع

کرنا۔

أَشَمَّتْهُ اللَّهُ بَعْدَ وَهْ: دشمن کے غم سے خوش

کرنا۔

تَشَمَّتَ الْقَوْمُ: بالنعيمت کے محروم واپس آنا۔

الشَّامِتُ: فاجِ شَمَاتٍ۔

الشَّامِيَةُ: الشَّامِتُ كَامُؤْنَتٍ۔ جانور کی ٹانگ۔

جِ شَوَامِتٍ: کہا جاتا ہے "بَاتٌ بِلَيْلَةٍ الشَّوَامِتُ" اس نے سخت مصیبت میں رات گزار لی جس پر خوش ہونے والی عورتوں نے

خوشی منائی۔ وَبَاتٌ طَوَّعَ الشَّوَامِتُ: مصیبت پر خوش ہونے والی عورتوں کی خواہش کے مطابق

اس نے رات گزار لی۔

الشَّامِتُ وَالشَّمَامَتِيُّ: محروم لوگ (جمع ہے واحد نہیں) کہا جاتا ہے "زَجَعَ الْقَوْمُ شِمَانًا وَ شَمَانِيً" قوم محروم واپس آئی۔

شَمَخَ (ن) شَمَخًا: الشَّيْءُ: ملانا۔

الْفُؤُوبُ: پھڑپھڑے کو زور زور سینا۔ شَمَخَهُ عَنْ كَذَا: الگ کرنا۔ فَلَانًا: جلدی کرنا۔

الشَّمَاخُ: انور کا وہ حصہ جو کھانے کے بعد پھینک دیا جائے۔ کہا جاتا ہے "مَا ذُقْتُ شَمَاخًا" یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔ نَاقَةٌ (شَمَخِي) تیز رفتار اونٹنی۔

شَمَجَزُ: الزُّجَلُ: خوفزدہ کی طرح دوڑنا۔

الشَّمْحَطُ وَالشَّمْحَاظُ وَالشَّمْحُوطُ: بست لہا۔

شَمَخَ (ف) شَمَخًا وَشَمُوعًا: الجَبَلُ: پہاڑ کا بلہ ہونا۔ صفت (شَامِيخٌ) جِ شَمَخٌ۔ مؤنث

شَامِيخَةٌ جِ شَوَامِيخُ وَشَامِيخَاتٌ (و شَمَخٌ) أَنْفُهُ وَبِأَنْفِهِ: تکبر سے ناک چڑھانا۔ صفت (شَمَخِيخٌ)

تَشَامَخَ: بلند ہونا۔ تکبر کرنا۔

تَشَمَخَ: بِأَنْفِهِ: تکبر کرنا۔

الشَّامِيخُ: فَـ نَسَبٌ شَامِيخٌ: شریف نسب

زُجَلٌ شَامِيخٌ: تکبر مرد۔

الشَّمَاخُ: شَامِيخٌ كَامِهَادِ جَبَلٍ شَمَاخٌ: بست بلند پہاڑ۔ مَفَاذَةٌ (شَمُونٌ وَ شَمَخٌ) دور

اطراف والا۔ بیابان۔

شَمَعُوهُ شَمَعْرَةً: تکبر کرنا۔

إِشْمَعْرُ إِشْمَعْرًا: الشَّيْءُ: طویل ہونا

الجَبَلُ: پہاڑ کا بلند ہونا۔

الشَّمْعُورُ وَالشَّمْعُورُ: تکبر مرد۔ بلند نظر۔ مونا آدمی یا اونٹ۔

الشَّمْدَزُ وَالشَّمْدَزُ وَالشَّمْدَزُ تيز رفتاری۔

الشَّمْدَزُ قَوُّ الشَّمِيدِزِ: جست لڑکا۔

شَمَزَ (ن) ض) شَمَزًا: تیز چلنا۔ تکبر سے چلنا

التَّخَلُّلُ: گھبریں کاٹنا۔

شَمَزَ تَشَمِيْرًا: تیز گزرنے والا۔ تیز چلانا۔

الشَّيْءُ: سہیٹا۔ السَّفِينَةُ: او الصَّفْوُ: چھوڑنا۔

الْفُؤُوبُ عَنْ سَاقِيهِ: اُشْمَاةٌ: فی الْأَمْرِ: جتنی کرنا۔ لِأَمْرٍ: ارادہ کرنا اور آمادہ ہونا۔

إِلَى الْمَكَانِ: قصد کرنا۔ شَمَزَتِ الْحَرْبُ وَشَمَزَتْ عَنْ سَاقِيهَا: سخت ہونا۔

أَشْمَرُهُ: جلدی کرنا۔ هَبَّ السَّنْفُ:

تَشَمَزَ وَالشَّمَزَ: تیز چلنا یا تکبر سے چلنا

الْأَمْرُ: ارادہ کرنا اور آمادہ ہونا۔

الشَّمْرُ: فِياضٌ۔ نَجِيٌّ: صاحب بھیرت۔ پرکھنے والا۔ تجرہ کار۔

الشَّمْرُوقُ وَالشَّمَارُ: ایک قسم کا پورہ ہے جس کے پھول زرد رنگ کے اور دانے سبز رنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ شَمْرٌ (شَمْرٌ) سخت بُرائی۔

الشَّمْرُوقُ الْمَسُورُ: ہیرا۔

الشَّمْرِيُّ وَالشَّمْرِيُّ وَالشَّمْرِيُّ: الشَّمْرِيُّ: تجرہ کار۔ دانے امور۔ محنت سے کام کرنے والا۔ مِنَ الْإِبِلِ: تیز رفتار۔ نَاقَةٌ: او الشَّاةُ (شَامِرٌ وَ شَامِرَةٌ) اونٹنی یا بکری جن کے تھن پیٹ سے لگے ہوئے ہوں۔ لَعْنَةٌ شَامِرَةٌ:

دانتوں کی جڑوں سے لگا ہوا سوزہ۔ جِ شَمْرٌ: امر۔

المَشْمُورُ: فا۔ تجرہ کار۔ محنت سے کام کرنے والا۔

شَمَزَجُ: الْفُؤُوبُ: دور دور ٹانگے لگا کر خراب

سلائی کرنا۔ فِي الْكَلَامِ: گز بڑ کرنا۔ خلط

شمل

یا اور سے ڈانا۔ الرَّجُلُ: کھیل کود یا مزاح پر آکسانا۔

أَشْمَعُ السَّوَّاحُ: روشنی پہیلنا۔
السَّمْعُ وَالشَّمْعُ: موم بتی۔ واحد (شَمْعَةٌ) وشَمْعَةٌ ج شَمْعَاتُ و (السَّمَاعُ) موم بتی بتانے والا یا بیچنے والا۔ و (المَشْمَعَةُ) موم بتی کا کارخانہ یا کتبے کی جگہ۔

الشَّمَاعُ وَالشِّمَاعَةُ: خوش طبعی۔ ہنسی۔ مذاق۔

الشَّمُوعُ مِنَ النِّسَاءِ: ہنسی مذاق کھیل کود والی عورت۔

الشَّمْعِدَانُ: چراغ دان۔ ج شَمَاعِد و شَمْعِدَانَات دان فارسی کا کلمہ ہے۔ شعردان کے مقابل عربی میں مَائِلَةٌ ہے۔ سِنْكٌ (مَشْمُوعٌ) غمراہ یا ہوا سبک۔

إِشْمَعْلَ الشِّمْعَانِ عِظَانًا: غصے سے بھر جانا۔

القَوْمُ فِي الطَّلَبِ: کسی چیز کو ڈھونڈنے میں جلدی کرنا اور پھیل جانا۔ الأَبْلِ وَالخَيْلِ: اونٹوں اور گھوڑوں کا متفرق ہونا۔

شَفَعَلٌ وَتَشَمَعَلٌ وَإِشْمَعَلٌ: القَوْمُ: متفرق ہونا۔ پھیلنا۔ کھترنا۔ إِشْمَعَلَتِ الحِزْبُ: لڑائی کا بھڑکنا۔ الغَارَةُ: ہرجا بھج سے عارت واقع ہونا۔ الأَبِلُ: اونٹوں کا خوشی میں ہو کر اور اور متفرق ہونا۔ إِشْمَعَلَتِ الرَّجُلُ: اوپر سے جھانکنا۔ بغیر ہنسی مذاق کے گزر جانا۔

شَمِيقٌ (س) شَمَقًا: جنون کی حد تک خوش ہونا۔

تَشَمَّقُ شَارِدًا: ہونا۔

الشَّمَاقَةُ: جنون۔ شامانی۔ چستی۔

الشِّمِيقُ وَالشَّمَمِيقُ: سبب شامان۔

شَمَلَتْ (ن) شَمُولًا الرَّبِيعَ: باوشالی چلنا۔ شَمَلًا الشَّيْءُ: باوشالی کے سامنے کرنا۔

بِهَ: بائیں جانب لینا۔ التَّخَلَّةُ: تیار کھجوروں کو چن لینا۔

شَمَلٌ (ن ض) شَمَلًا الشَّاةُ: بکری کے تھن پر تھملا چرانا۔

شَمِلَةٌ (س) شَمَلًا وَشَمُولًا: چادر میں لپیٹنا۔

شَمِلٌ (س) شَمَلًا وَشَمِلًا:

شمل

باوشالی: کہا جاتا ہے "هَبَّتِ الشَّمَالُ اَوْ رُبِعَ شَمَالٌ" باوشالی چلی۔ ج شَمَالَات۔ الشَّمَالُ:

بکری کے تھن کا غلاف۔ و الشَّمَالُ: ج أَشْمُلُ وَشَمَلٌ وَشِمَالٌ (قند الواحد) و شَمَائِلُ: بایاں۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ عِنْدِي بِالشَّمَالِ" فلاں میرے نزدیک کم رتبہ والا ہے۔ و "هَوُ عِنْدِي بِالْيَمِينِ" وہ میرے نزدیک اچھے مرتبہ پر ہے۔ الشَّمَالُ: اُتْر۔ بد بختی۔ بکری کے تھن کا داغ۔ کھیتی کا ایک صھاجس کو تھم میں پکڑ کر کاتنے والا کاتے۔ طَبِيعَةُ شِمَالٌ: وہ پرندہ جس سے بد شکوئی کی جائے۔ نَاقَةُ شِمَالٍ: تیز رفتار اونٹنی۔

الشَّمَالُ: ج شَمَائِلُ: سیرت۔ عادت۔ طبیعت۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ مِنْ شِمَالِي أَنْ أَغْضَلُ بِشِمَالِي" میری عادت نہیں کہ بائیں ہاتھ سے کام کروں۔

الشَّمِيلَةُ: طبیعت۔ ج شَمَائِلُ.

الشَّمِيلُ: چادر سے لپٹا ہوا۔

الشَّمُولُ: شراب یا عسڈی شراب۔

الشَّمِيلُ: تھوڑی کھجوروں کا گچھا۔ نَاقَةُ شِمْيَلَةٍ: تیز رفتار اونٹنی۔

الشِّمِيَالُ: بایاں۔

الشَّمَالَةُ: شکاری کے لیے شکار سے چھپنے کی جگہ۔ ج شَمَائِلُ.

المِشْمَلُ: چھوٹی کوار۔ مخمّر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ (و المشملة والمشمال) جسم کو ڈھانکنے والی بڑی چادر۔ الحاف۔

المَشْمُولُ: منفع۔ جس پر باوشالی چلی ہو۔ پسندیدہ اخلاق والا۔

المَشْمُولَةُ: شراب اور بقول بعض عسڈی شراب۔ لَيْلَةُ مَشْمُولَةٍ: عسڈی رات۔ اخلاق۔

مَشْمُولَةٌ: بڑے اخلاق۔

شَمَلٌ: الرَّجُلُ: جلدی کرنا۔ التَّخَلَّةُ: پختہ کھجوروں کو چن لینا۔ جَمَلٌ أَوْ نَاقَةٌ بِشِمَالَانِ وَ شَمَائِلٍ: تیز رفتار اونٹ یا اونٹنی۔

و الشَّمَالُ: بایاں۔

الشَّمَالُ: کھجوروں یا بارش کی تھوڑی مقدار یا آدمیوں کی تھوڑی تعداد۔ ج شَمَائِلُ۔

الشَّمَائِلُ: شاخ کے سر پر متفرق شئیوں۔ کہا

القَوْمُ: باوشالی گانا۔

شَمَلٌ (ن) وَشَمِلٌ (س) شَمَلًا وَشَمَلًا وَشَمُولًا: الأَمْرُ القَوْمُ: عام ہونا۔ شامل ہونا۔ کہا

جاتا ہے "شَمَلُ القَوْمِ خَيْرٌ اَوْ شُرٌ" اس کی بھلائی یا بزدلی ساری قوم کو عام ہوگئی۔

شَمَلَةٌ تُشَمِلَانًا: چھوٹی چادر میں لپیٹنا۔ شَمَلٌ الرَّجُلُ: جلدی کرنا۔ بائیں ہاتھ سے پکڑنا۔

أَشْمَلُ: القَوْمُ: باوشالی میں داخل ہونا۔ الرَّبِيعُ: باوشالی چلنا۔ الشَّاةُ: بکری کے تھن کیلئے تھملا پانا۔

القَوْمُ خَيْرًا اَوْ شُرًا: خیرا شر کوسب کے لیے عام کرنا۔ الرَّجُلُ: بڑی چادر والا ہونا۔ أَشْمَلَةٌ: بڑی چادر دینا۔

التَّخَلَّةُ: پختہ کھجوروں کو چن لینا۔

تَشَمَلٌ: بِالشَّمْلَةِ: چادر میں لپیٹنا۔

إِشْمَلٌ: جلدی کرنا۔ فِي الحَاجَةِ: آمادہ ہونا۔ ارادہ کرنا۔ بِالرَّغَبِ: سارے جسم پر لپیٹنا۔ الأَمْرُ عَلَيْهِ: گھیرنا۔ احاطہ کرنا۔ عَلَى فَلَانٍ: بچانا۔

إِنشَمَلُ جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِنشَمَلْتُ لِحَاجَتِهِ" اس نے اپنی حاجت میں جلدی کی۔

الشَّمَلُ: مہ۔ باوشالی۔ امر تجز۔ امر متفرق (ضد) کہا جاتا ہے "جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُمْ" اللہ ان کے امور متفرق کو جمع کر دے۔ و "فَوَقَّ اللهُ شَمْلَهُمْ" اللہ ان کے اجتماع کو توڑ دے۔ (و الشمّل) کھجوروں کا گچھا اور بقول بعض کم دانوں والا گچھا۔

الشَّمَلُ: مہ۔ باوشالی۔ پناہ۔ تھوڑی بارش۔ تھوڑی تعداد کھجور، آدمی وغیرہ کی۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَنَا شَمَلٌ مِنَ المَطَرِ" ہم لوگوں پر تھوڑی بارش ہوئی۔ و "مَاعَلِيَ التَّخَلَّةُ لِأَشْمَلٍ" کھجور کے درخت پر تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ ج أَشْمَالُ.

الشَّمْلَةُ: جسم کو ڈھانکنے والی چادر۔ ج شَمَالَاتٌ أَمْ شَمْلَةٌ: ڈبٹا۔ شراب۔ آفتاب۔

الشَّمْلَةُ: لپٹنے کی بیت۔ کہا جاتا ہے "هَوُ حَسَنُ الشَّمْلَةِ"

الشَّمَالُ وَالشَّمَالُ وَالشَّمَالُ وَالشَّمَالُ وَالشَّمَائِلُ وَالشَّمَائِلُ وَالشَّمَائِلُ وَالشَّمَائِلُ وَالشَّمَائِلُ وَالشَّمَائِلُ

سکرانا۔ جھری دار ہونا۔ جلد کی صفت (شَنج) اور صاحب جلد کی صفت (شَنجِ وَ اَشْنَجِ) شَنَجٌ سَکِرَانًا۔

الشَّنَجُ مَمَّ اَوْنَتْ۔

شَنَجٌ عَلَیْهِ بِرَاہِمَا کَرَا۔

الشَّنَاحِ وَالشَّنَاحِی وَالشَّنَاحِی وَالشَّنَاحِیۃ۔ موٹا اور لمبا اونٹ۔ مَوْنَتْ شَنَاحِیۃ۔

شَنَجٌ التَّخْلِ: درخت خرماسے کا نئے دور کرنا۔

الشَّنَاخِ بِہَا زِی نُوک۔

الشَّنَاخَابُ وَالشَّنَاخُوبُ وَالشَّنَاخُوبِۃ۔

بہاڑی کی چوٹی۔ ج شَنَاحِیْب۔ الشَّنَاخُوبُ: کندھے کے اوپر کا حصہ۔ ریزہ کی ہڈی۔

الشَّنَاخِیۃ تَکْبَرُ غُرُور۔

الشَّنَاخِیۃ لِبَاہِمَا۔

الشَّنَاخِیۃ مَوْنَا اَوْنِی۔

الشَّنَاخِیۃ مَوْنَا۔

الشَّنَاخِیۃ: گھسے بدن کا مضبوط لمبا۔ شیر۔ سَفر

سے واپسی یا عمارت کی تیاری کی دعوت۔ زَجَلٌ

شَدِیۃ وَ شَدِیۃ اَزَّۃً لَمَدِی زَبَانِ وَالامر۔

شَنَجٌ عَلَیْهِ عَیْبٌ لَکَانَ۔ رسوا کرنا۔

الشَّنَا۔ عار۔ بدترین عیب۔

الشَّنِیۃ وَالشَّنِیۃ۔ بد خلق۔ بڑا شریر۔ بڑا

عیبی۔

الشَّنَاہِی۔ جلی۔

شَنَزَ الشُّوْنِزِ وَالشَّنِیۃ۔ کھونجی۔

الشَّنَوْبُ۔ بہت سخت۔

شَنَزَ شَنَزَۃً۔ الزَّجَلُ سخت ہوتا۔

الشَّنَزَۃ۔ مہ۔ سختی۔

الشَّنِیۃ۔ عادت۔ طبیعت۔ گوشت کا کٹنا۔ ج شَنَاشِیۃ۔

الشَّنِیۃ۔ کاغذ یا نئے کپڑے کی حرکت کی

آواز۔

شَنَّصَ (ان) شَنَّصَ (س) شَنَّصًا۔ بہ چمٹنا۔

فَرَسٌ (شَنَّصٌ وَ شَنَّصِیٌّ وَ شَنَّصِیٌّ وَ شَنَّصِیۃً) عمدہ مضبوط لمبا گھوڑا۔

الشَّنِصْرَۃُ وَالشَّنِصِیۃ۔ موٹائی۔ سختی۔

شَنَا (ف) وَ شَنِی (س) شَنَا وَ شَنَا وَ شَنَاۃً

وَ شَنَانًا وَ شَنَاوًا وَ شَنَاوًا وَ شَنَاوًا وَ شَنَاوًا۔

الزَّجَلُ: بغض رکھنا۔ دشمنی کرنا۔ نفرت کرنا۔

صفت فاعلی (شَانِی) ج شَنَا۔ مَوْنَتْ شَانِیۃً۔ ج

شَوَانِی وَ صفت مفعولی (مَشْنُوۃ)

شَنِی (س) شَنَاۃ۔ الشَّنِی: نکالنا __ حقہ و

بِحَقِّہ: اقرار کر کے دینا۔

شَنِی۔ جمیل ہوتے ہوئے مکروہ ہونا۔

تَشَانًا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔

الشَّنَاۃ۔ بغض۔ دشمنی۔

الشَّوَانِی۔ شَانِیۃ کی جمع۔ شَوَانِی الْمَالِ: ایسے

اموال جن کیلئے بخل نہ کیا جائے۔

الشَّنَانُ۔ بغض رکھنے والا۔ مَوْنَتْ شَنَانًا

وَ شَنَانِی زَجَلٌ شَنَانِیۃً بغض رکھنے والا مرد۔

المِشْنَا۔ وہ شخص جس سے لوگ بغض رکھیں۔

ایسے امور کا ارتکاب کرنے والا جن کی وجہ سے

لوگ دشمنی کریں۔

المِشْنَا۔ قبیح (واحد جمع مذکر مؤنث سب کے

لئے ہے) لوگوں سے دشمنی کرنے والا۔

شَنِیْب (س) شَنِیْبًا۔ الْیَوْمُ: ٹھنڈا ہونا۔ صفت

(شَانِیْبٌ وَ شَنِیْبٌ) اور اسم (الشَّنِیْبۃ)

__ الزَّجَلُ: سفید خوبصورت دانتوں والا ہونا۔

صفت (أَشْنَبٌ وَ شَانِیْبٌ وَ شَنِیْبٌ وَ شَنِیْبٌ)

المِشْنَابِ۔ خوشبودار منہ۔

الشَّنِیْبَاءُ۔ سفید خوبصورت دانتوں والی

عورت۔ اتاری کی ایک قسم جس میں گھٹلی نہیں ہوتی

صرف رس ہی رس ہوتا ہے۔

شَنَّیْبٌ۔ الْهَوَی قَلْبِہ: محبت کا دل میں جاگزیں

ہونا۔

الشَّنِیْبُ وَالشَّنَابِیۃ۔ شیر۔ سخت۔

شَنَّیْبُہُ شَنَّیْبُہُ۔ بوسہ دینا۔

الشَّنِیْبۃ۔ فاکل۔

شَنَّو۔ قُوْبۃ: کپڑے کو نکلے نکلے کرنا۔

الشَّنِیْبۃ۔ انگلی۔ دو انگلیوں کے درمیان کا حصہ۔

ج شَنَّابِو۔ کہتے ہیں "لَا ضَمَمْتُكَ ضَمَّ الشَّنَابِیۃ" یعنی میں تجھ کو انگلیوں کی طرح ملاؤں گا۔

شَنِیج (س) شَنَّجًا وَ اَشْنَجٌ وَ تَشَنَّجٌ

وَ اَشْنَجٌ۔ الْجِلْدُ: کھال کا گرمی یا سردی سے

جاتا ہے۔ "مَا عَلِی التَّخْلِۃَ الْاَشْمَالِیۃ" درخت

خرما پر توڑی سی کھجوریں ہیں۔ و "ذَهَبُوا

شَمَالِیۃ" وہ متفرق ہو کر چلے گئے۔ "قُوْبٌ

شَمَالِیۃ"۔ پھانسیاں کھڑا۔

شَمَلِقٌ۔ اِمْرَاۃٌ (شَمَلِقٌ) بڑی عادت والی

عورت۔

الشَّمَنْدَرُ وَالشَّمَنْدُرُ۔ چندر۔ لنگرنا۔

الشَّمَنْدَرُ فَرُو الشَّمَنْدَرُ وَ فَرُو۔ انجن۔ ریل

گاڑی۔

شَمَهْدٌ۔ السَّیِّئِیۃ: تیز کرنا۔ الْحَدِیْدُ: پتلا

کرنا۔

الشَّمَهْدُ۔ تیز چیز۔ ہلکا ہلکا۔ تیز زانوں والا کتا۔

شَمَا یَشْمُو شَمُوًا۔ الزَّجَلُ: بلند شان والا

ہونا۔

الشَّمَا۔ موم۔

شَرَّ (ان) شَنَا۔ الْمَاءُ عَلَی الشَّرَابِ: متفرق

چھیننا رہنا۔ (ا __ وَ اَشْنُ) الْغَاوۃُ عَلَیْہِمْ:

چاروں طرف سے لوٹ ڈالنا۔

شَنَّتٌ (ض) وَ اَشَنَّتٌ وَ شَنَّتٌ۔ الْقِرْبۃُ:

مٹک پرانی اور خشک ہونا۔

تَشَنَّ وَ تَشَنَّ۔ الْجِلْدُ: کھال خشک ہونا۔

سکرنا __ جِلْدُ الْاِنْسَانِ۔ بوجھنے کے وقت

جھری والا ہونا (ا __ وَ اَشَنَّ) السِّقَاۃُ: مٹک

پرانی ہونا۔ تَشَنَّ الشَّیْبَانُ: باہم ملنا۔

اِسْتَشَنَّ۔ ڈبلا ہونا __ الِی اللَّبَنِ: دودھ کا

خواہش مند ہونا۔ اِسْتَشَنَّتُ الْقِرْبۃُ: مٹک پرانی

ہونا۔

الشَّن۔ مہ۔ ج شَنَّانٌ وَ اَشَنَّانٌ وَ (الشَّنۃ)

چھوٹی پرانی مٹک۔ قُوْسٌ شَنَّۃٌ: پرانی کمان۔ کما

جاتا ہے "قُوْبۃٌ اَشَنَّانٌ" پرانی مٹک۔ ہر جزء کو

مٹک قرار دے کر اَشَنَّانٌ جمع لاتے ہیں۔

الشَّنُونُ۔ موٹا۔ دیلا (ضد) بھوکا۔

الشَّنِیۃ۔ دودھ جس پر پانی ڈالا گیا ہو۔

الشَّنَانُ۔ ٹھنڈا پانی۔ پانی بھرنے والا۔ بادل۔

مَا شَنَّانٌ: متفرق پانی۔

الشَّنَانۃ۔ مٹک یا درخت سے نکلنے والا پانی۔

الْاَشَنَّانُ۔ ایک قسم کی گھاس جو ہاتھ دھونے

کے کام آتی ہے۔

عَنْمَةً إِلَى عَنَمٍ زُنَيْدٌ: ملا کر بڑھانا
الْيَدَائِي الْعُنُقِي: ہاتھ کا گلے میں گھیراؤ لانا۔
شَانَقَةٌ مَشَانَقَةٌ وَشِنَاقٌ: اپنے مال کو کسی کے
مال سے ملانا۔
شَانَقًا: اپنے مال کو دوسرے کے مال سے
ملانا۔

الشَّقْ: مہ۔ تاوان زخم۔ رشتی۔ سر کی لمبائی۔
شَقْرِي: شہری۔

الشَّقَاقِ: مہ۔ منگ کا بندھن۔ تانت سر کی
لمبائی۔ ہر وہ دوری جس سے کوئی چیز لٹکانی جائے۔
رشتی جس سے اونٹ کے سر کو کھینچا جائے۔
ہاتھوں کو موٹڑوں سے ملا کر باندھنے کی رشتی۔ ج
شَقُّقٌ وَأَشَقِقَةٌ:

الْقَلْبُ (الشَّقِيقُ) مَشَاتِقٌ وَخَوَاشِ مَسْدُولٌ: ج
أَشِنَاقِ: فَرَسٌ (أَشَقُّقٌ) لِبَسِّهِ سِرَاكُ مَكُونًا: اور ایسا
ہی بَعِيْرٌ أَشَقَقِ: مَوْتٌ شَقَقَاءٌ وَشَقَقَاءُ:
الشَّقَقَاءُ: وہ پرندہ جو اپنے بچہ کو جو گادے۔

الشَّقِيْقِي: چھائی دیا ہوا۔ وہ کھڑی جس پر تھوڑا
ساشد لگا کر چھتے میں رکھ دیتے ہیں۔ منہ بولا بیٹا۔
الشَّقِيْقِي: خود پسند۔ الشَّقِيْقِيَّةُ: عشق باز
عورت۔

المِشَقَاقِ: ہر چیز کی طرف نظر ڈالنے والا۔
شَقَمٌ (ن) شَقَمًا: الجِلْدُ: خراش لگانا۔ مَاءٌ
(شَقْمٌ) مَحْضَرٌ يَابَانِي:
الشَّقْمُ: کئے ہوئے کان والے۔

الشَّقْمُ: چنگاری جو اڑے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ"
يَنْظُرُ شَقْمَةً" فلاں سے غصہ کی وجہ سے
چنگاری اڑ رہی ہے۔

شَقَقٌ أَوْ شَقَقَتْ: الجِمَاازُ: گدھے کا
ڈھینچوں ڈھینچوں کرنا۔ یہ کلمہ عوام کے نزدیک
ہے۔ فصیح لفظ نَهَقٌ يَأْشَقُقُ ہے۔

الشَّقَانِيَّةُ: بڑا جنگلی جہاز۔ ج شَوَانٍ (مفرد کا
استعمال نادر ہے)۔

شَهَبٌ (س) وَشَهَبٌ (ك) شَهَبًا: سیاہی ملی
ہوئی سفید رنگ والا ہوتا۔ صفت (شَاهِبٌ
وَأَشْهَبٌ عَامٌّ أَشْهَبٌ: خشک سال۔ يَوْمٌ
أَشْهَبٌ: ٹھنڈی ہوا اور پالے کا دن۔ جَيْشٌ
أَشْهَبٌ: قوی و مضبوط لشکر۔ ج شَهَبٌ:

المَشْتَقُّ: قبیح۔ بے حقیقت خبروں کا پھیلائے
والا۔

المَشْتَقُّغُ: مہ۔ بڑائی میں مشہور۔
الشَّقَعَابُ: لمبے قد و قامت کا مرد۔

الشَّقُوفُ وَالشَّقَافُ: پہاڑ کی چوٹی۔ بلند
پہاڑ۔ لمبا و کمزور مرد۔

الشَّقَعَةُ: لمبائی۔
شَقَفَ (ن) شَقَفًا: إِلَهٌ: تعجب یا اعتراض کی
نظر سے دیکھنا۔

شَقَفَ (س) شَقَفًا: فَلَانًا أَوْ لِفَلَانٍ: بغض
رکھنا۔ لَهْ: سمجھ جانا۔ پہ: تار جانا۔

شَقَفَ: الكَلَامَ: مزین کرنا۔ إِلَهٌ: کٹھن
سے دیکھنا۔ (وَأَشَقَفَ) الجَارِيَّةُ: لڑکی کیلئے
ایزر رنگ بنانا۔ بال بنانا۔

تَشَقَّقَتِ: الجَارِيَّةُ: لڑکی کا ایزر رنگ بننا۔ بال
بننا۔

الشَّقَائِفِ: قا۔ اعراض کرنے والا۔ کہا جاتا ہے
"إِنَّهُ لَشَائِفٌ عَنَّا بِأَنْفِهِ" وہ اپنے آپ کو ہم سے
برتر سمجھتا ہے۔

الشَّقَفُ: مہ۔ بالی۔ ایزر رنگ۔ ج شُقُوفٌ
وَأَشَقَافٌ:

الشَّقِيفُ: بغض رکھنے والا۔

شَقَقَ (ن) شَقَقًا: التَّبَعِيْرُ: سوار ہونے کی
حالت میں لگام کھینچنا۔ الْقَرْبِيَّةُ: منگ کو سر بند

باندھ کر دونوں ہاتھوں سے سر بند کو پکڑنا۔
رَأْسُ الدَّابَّةِ: درخت یا اونچے کونٹے سے جانور
کے سر کو باندھنا اور اسی سے مولدین کے نزدیک
لفظ "الشَّقِيقُ" ہے جس کے معنی مجرم کو چھائی

دینے کے ہیں۔ الشَّقِي: لٹکانا۔ الخَلِيَّةُ:
شہید کے چھتے میں لکڑی ڈالنا۔

شَقَقَ (ض) شَقَقًا وَشَقِقَ (س) شَقَقًا كَيْ يَجْزِ
سے محبت کرنا اور گردیدہ ہو کر رہنا۔

شَقَقَ: عَظْمٌ: عَظْمٌ: عَظْمٌ: عَظْمٌ: عَظْمٌ:
الخَلِيَّةُ: شہد کے چھتے میں لکڑی ڈالنا۔

أَشَقَقَ: التَّبَعِيْرُ وَ الْقَرْبِيَّةُ: بمعنی شَقَقَ التَّبَعِيْرُ وَ
الْقَرْبِيَّةُ: التَّبَعِيْرُ: اونٹ کا سر اٹھانا۔ عَلِي
فَلَانٍ: دست درازی کرنا۔ الرَّجُلُ: خون ہا
لیٹا یا خون بہا واجب ہونا۔ (ضد) الشَّقِي لٹکانا

الشَّقِيصِرُ: جائے پناہ۔
الشَّقَطُ: کپے ہوئے گوشت کے ٹکڑے۔

المَشَقَطُ: بھنا ہوا گوشت۔ شِوَاءٌ مَشَقَطٌ:
اچھی طرح سے نہ بھنا ہوا۔

شَقَطَ: شَقَاظُ: الجَبَلُ: پہاڑ کی چوٹی۔ کہا جاتا
ہے "إِمْرَأَةٌ ذَاتُ شَقَاظٍ" کٹھے بدن والی

پر گوشت عورت۔
الشَّقِطْبُ: لمبا خوبصورت۔

شَقَطَرٌ بِهِمٌ: گالی دینا۔ حَشُّ كَيْفَا:
الشَّقِطِيْرُ وَالشَّقِطِيْرَةُ وَالشَّقِطُوْرَةُ:

بدخل۔ چٹان جو پہاڑ سے پھٹ کر گرے۔
شَقِطِيْرَةُ كَيْ جَمْعُ شَقَاظِيْرٍ: شَقَاظِيْرُ الجَبَلِ:

پہاڑ کے اطراف۔
الشَّقِطُوْفُ: ہر چیز کی شاخ۔

شَقَطِي: پہ: بڑا بھلا سنا۔
شَقَطُوْرَةُ: الجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔ پہاڑ کا کنارہ۔

ج شَقَاظِي:
شَقَعَةٌ (ف) شَقَعًا: قَبِيْحًا: گالی دینا۔ رَسُوًا

کرنا۔
شَعِبٌ (س) شَعَبًا: پہ: قبیح سمجھنا۔ کہا جاتا ہے

"رَأَى أَمْرًا شَعِبَ بِهِ" اس نے ایسا معاملہ دیکھا
جس کو قبیح سمجھا۔

شَعِبٌ (ك) شَعَاعَةٌ وَشَعَاعَةٌ وَشَعَاعَةٌ:
شَعِبٌ ہوتا۔ صفت (شَعِبٌ ج شَعِبٌ وَ شَعِبٌ
وَأَشَعِبٌ)

شَعَقَ: الرَّجُلُ: بہت بڑا بھلا کرنا۔ عَلِيَّةُ
الْأَمْرِ: قبیح قرار دینا۔ الرَّجُلُ: آمادہ و تیار

ہوتا۔ (وَأَشَعِبَ) التَّبَعِيْرُ: دوڑنے میں
کوشش کرنا۔

تَشَعَّبَ: دوڑنے میں کوشش کرنا۔ لِأَمْرٍ: تیار
ہونا۔ السَّلَاحُ: ہتھیار بننا۔

الغَازَةُ: لوث ڈالنا۔ الْقَوْمُ: اختلاف رائے
کی وجہ سے خراب حالت والی ہونا۔

الرَّجُلُ: بڑے کام کا ارادہ کرنا۔ الْقَرْسُ:
گھوڑے پر سوار ہونا۔ جَزَعًا: الشُّوبُ:

کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
إِسْتَشَعَبَهُ: قبیح سمجھنا۔ مَكْرَهُه: سمجھنا۔

الشَّعْبَةُ وَالشَّعَاعَةُ وَالشُّنُغُ: قَبَاحَتِ:

شَهْبَةُ (ف) شَهْبًا و شَهْبَةً. الْحَرُّ: گرمی کا جھلس دینا۔

أَشْهَبَ - الْعَامَ الْقَوْمَ: قوم کے اموال کو تباہ کر دینا۔

إِشْهَبَ و إِشْهَابًا و إِشْهَبَتْ: سیاہی ملی ہوئی سفید رنگ والا ہونا۔ الزَّرْعُ: خشک و زرد ہونا اور کچھ بڑی باقی رہنا۔

الشَّهْبُ - مہ - برف سے ڈھکا ہوا پہاڑ۔
الشَّهْبُ و الشَّهْبَةُ: سفیدی جس میں کچھ کچھ سیاہی ملی ہوئی ہو۔

الشَّهَابُ: آگ کی چمک۔ ٹوٹا ہوا تارہ۔ تارہ۔ نیرہ کا پھل۔ ج شُهْب و شُهْبَان و شُهْبَان و أَشْهَبُ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ شُهْبَانٌ حَزْبٌ" جبکہ جنگ میں کود پڑنے والا ہو۔

الأَشْهَبُ: شیر۔ دوشوار کام۔
الشَّهْبَاءُ أَشْهَبُ كَامُونَتٍ: شہر طلب کا لقب

_____ مِنَ الْكُنَائِبِ: بہت تھمیاروں والا بڑا لنگر۔ سَنَةُ شُهْبَاءٍ: بغیر بارش اور بڑی کے خشک سال یا بہت برف والا سال۔

الشَّهَابُ و الشَّهَابَةُ: دوہ جس میں دو تہائی پانی ملا ہو۔

الأَشْهَابُ: مندر نگی کی اولاد۔

الشَّاهَتْجُ و الشَّهْتَرُ شَاهَتْرَةً:

شَهْدٌ (س) شَهْوَدًا - الْمُخْلِيسُ: حاضر ہونا

_____ الشَّيْءُ: معائنہ کرنا۔ اطلاع پانا _____

الْجَمْعَةُ: پانا _____ عَلَى كَذَا: گواہی دینا۔

صفت (شاہد) ج شَهْوَدٌ و شَهْدٌ۔

شَهِدَ (س) و شَهِدَ (ك) شَهَادَةً عِنْدَ الْحَاكِمِ لِفُلَانٍ أَوْ عَلَى فُلَانٍ: گواہی دینا۔

صفت (شاہد) ج شَهِدَ و شَهْوَدٌ و أَشْهَادٌ۔

شَهِدَ اللَّهُ: جانا یا قبول فرمنا۔ شَهِدَ بِكَذَا: قسم

کہا۔

شَاهِدَةٌ مُشَاهَدَةٌ: معائنہ کرنا۔

أَشْهَدُ: حاضر کرنا۔ أَشْهَدُ فُلَانًا عَلَى كَذَا:

گواہ بنانا۔

إِشْهَدُهُ: گواہی دینے کو کہنا۔

إِسْتَشْهَدِيهِ: گواہی کے معاملہ کو مدد دینا۔

أَشْهَدُ و أَسْتَشْهِدُ: اللہ کے راستہ میں قتل

ہونا۔

تَشْهَدُ: گواہی طلب کرنا _____ الْمُسْلِمِ:

التحمت پڑھنا۔

الشَّهِدُ و الشَّهِدَةُ: شہد جو موم سے جدا نہ کیا گیا ہو۔ ج شَهِدَاءُ و (الشَّهِدَةُ و الشَّهِدَةُ) اس سے خاص ہے۔

الشَّهَادَةُ: مہ۔ یقینی خبر گواہی۔ قسم۔ اللہ کے راستہ میں قتل ہونا۔ عالم ظاہر جو عالم غیب کے مقابل ہے۔

الشَّاهِدُ: قا۔ زبان۔ اور اس سے قول ہے "عَالِمَةٌ زَوَائِدٌ لَأَشْهَدُ" یعنی اس کے لیے نہ تو حسن منظر ہی ہے نہ زبان۔ قوام۔ ستارہ۔ صَلَاةُ الشَّاهِدِ:

مغرب کی نماز۔ وہ عبارت جو کسی قاعدہ نحو وغیرہ کے ثابت کرنے کے لیے نقل کی جائے۔ الشَّاهِدُ مِنَ الْأُمُورِ: جلدی۔

الشَّاهِدَةُ: الشَّاهِدُ كَامُونَتٍ - زَمِينِ - ج شَاهِدَاتٍ و شَوَاهِدٍ۔

الشَّهِيدُ و الشَّهِيدَةُ: حاضر۔ گواہی میں امانت دار۔ وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں مقتول۔ اسم (الشَّهِادَةُ) ج شَهِدَاءُ مَوْتٌ شَهِيدَةٌ۔

المَشْهَدُ: لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔

لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کی جگہ۔ ج مَشَاهِدُ۔

المَشْهَدَةُ و المَشْهَدَةُ: لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔

المَشْهَدُ: اللہ کے راستہ کا مقتول۔

المَشْهَدَةُ: قا۔ امْرَأَةٌ مُشْهَدَةٌ: وہ عورت جس کا شوہر موجود ہو اور اس کا مقابل "امْرَأَةٌ مَعْبُودَةٌ" ہے یعنی وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو۔

المَشْهُودُ: مہم۔ جمعہ کا دن۔ قیامت کا دن۔ عرفہ کا دن۔

شَهِدَرُ شَهِدَرَةٌ: الفَلَامُ او الجَارِيَةُ: لڑکے یا لڑکی کا تین اور چھ سال کے درمیان حرکت کرنا۔

الشَّهِدَرُ: دولت مند۔ مَوْتٌ شَهِدَرَةٌ۔

الشَّهِدَاةُ: بد زبان۔ فساد انگیز۔ کھٹے بدن کا پستہ

تد۔

شَهْرَةٌ (ف) شَهْرًا و شَهْرَةً: مَشْهُورٌ

کرنا۔ شَهْرٌ و شَهْرٌ السَّنَةِ: تلوار کو سونت کر

بلند کرنا۔ و شَهْرٌ فَلَانًا: رسوا کرنا۔

أَشْهَرٌ: ایک مہینہ کسی حال میں ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَشْهَرْنَا فِي هَذَا الْمَكَانِ" ہم نے اس جگہ ایک مہینہ قیام کیا۔ أَشْهَرَتِ الْمَرْأَةُ: ولادت کے مہینے میں داخل ہونا _____ الْأُمُّرُ: ظاہر کرنا۔ مشہور کرنا۔

شَاهِرَةٌ شَهَائِرًا و مُشَاهَرَةٌ: ماہواری پر معاملہ کرنا۔

أَشْهَرُ: الأمُّرُ: مشہور ہونا _____ الأمُّرُ: مشہور کرنا _____ بِالْفَضْلِ: فضیلت میں مشہور ہونا۔

الشَّهْرُ: مہ۔ دانہ۔ نیا چاند۔ چاند۔ مہینہ۔ ج أَشْهُرٌ و شُهُورٌ۔

الشَّهْرَةُ: شہرت۔ بڑائی میں مشہوری۔ رسوائی۔

الشَّهْرِيُّ: مشہور۔ نامور۔ مَوْتٌ شَهْرِيَّةٌ۔

المَشْهُورُ: مہم۔ شہرت یافتہ۔ مَوْتٌ مَشْهُورَةٌ۔

الشَّهْرَبُ: بڑی عمر والا۔ مَوْتٌ شَهْرَبِيَّةٌ۔

درخت خرما کے نیچے کا چھوٹا خوض۔

شَهَقٌ (ف ض) و شَهَقٌ (س) شَهِيقًا و تَشْهَاقًا: الحِمَازُ: گدھے کا رینگنا (_____ شَهِيقًا و تَشْهَاقًا و شَهَاقًا) الزَّجَلُ: رونے میں سکی لینا۔ (_____ شَهْوَقًا) الحَبْلُ و عَيْتُهُ: پہاڑ وغیرہ کا بلند ہونا۔ صفت (شَهِقٌ) اور تم کہتے ہو "شَهَقْتُ عَيْنِي عَلَيْهِ" جبکہ تم کو کوئی چیز پسند آئے اور تم اس پر نظر جمادو۔

تَشَهَّقٌ: عَلَيْهِ: نظر جمانا۔

الشَّهَقَةُ: اسم مرقہ۔ جج۔

الشَّاهِقُ: قا۔ ذو شَهِقٍ: زیادہ غضبناک۔

التَّشْهَاقُ: مہ۔ کہا جاتا ہے "صَخْلُ تَشْهَاقٍ" زور کی ہنسی۔ وصف بالصدر کی بنا پر۔

شَهْلٌ (س) شَهْلًا و إِشْهَلٌ: إِشْهَالًا: آنکھ میں سیاہی مائل بھرنا ہونا۔ صفت (أَشْهَلٌ) مَوْتٌ شَهْلَاءُ: ج شَهْلٌ۔ آنکھ کی صفت بھی شَهْلَاءُ: واقع ہوتی ہے۔

شَاهِلَةٌ مُشَاهَلَةٌ: کل گلوچ کرنا۔

تَشَهَّلَ - بے رونق چہرہ والا ہونا۔

الشَّهْلُ وَالشَّهْلَةُ - آگھ کی سیاہی مائل برشتی۔

الشَّهْلَاءُ - حاجت - کہا جاتا ہے "قَضَيْتُ مِنْ فُلَانٍ شَهْلَانِي" فلاں میں سے میں نے اپنی حاجت پوری کی۔

الشَّهْلَةُ - بڑھیا۔

شَهْمٌ (ف) ان شَهْمًا وشَهْمًا - الفَرَسُ ذَاتُنَا الرَّجُلُ - گھریا۔ خوفزدہ کرنا۔

شَهْمٌ (ك) شَهَامَةٌ وشَهْوَةٌ - تیز فم ہونا۔ ذکی ہونا۔

الشَّهْمُ - تیز خاطر۔ ذکی۔ سردار جس کا حکم جاری ہو۔ جن چالاک گھوڑا۔ جن شَهْمٌ۔

الشَّيْهَمُ - ترسی۔ جن شَيَاهِمٌ۔

الشَّهَامُ - غول بیابانی۔

الشَّيْهَمَةُ - بڑھیا۔

المَشْهُومُ - تیز خاطر۔ ذکی۔ خوفزدہ۔

الشَّاهِنُ - ایک شکاری پرندہ۔ جن شَوَاهِينُ وشَيَاهِينُ - ترازو کا عمود۔

شَهَا يَشْهَرُ وشَهِي يَشْهِي شَهْوَةً وِاشْتَهَى - الشَّيْءَ: خواہش کرنا۔ رغبت شدید کرنا۔

شَهْوٌ يَشْهَوُ - الطَّعَامَ - لذیذ ہونا۔

شَهِي - الرَّجُلُ: خواہش کرنے پر آسانا۔ عَلَيْهِ كَذَا: طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الشَّيْءُ يَشْتَهِي الطَّعَامَ" یہ چیز کھانے کی خواہش بڑھاتی ہے۔

شَاهَاه - مشابہ ہونا۔

أَشْهَاهُ - خواہش کے مطابق رہنا۔ نظردہ لگانا۔ تَشَهَّى - الشَّيْءَ: خواہش کرنا۔ عَلَيْهِ كَذَا: بار بار خواہش کرنا۔

الشَّهْوَةُ - مہ۔ خواہش۔ جن شَهْوَاتٌ وشَهْوِيٌّ۔

الشَّهَاءُ - بہت خواہش کرنے والا۔

الشَّهْوِيُّ - خواہش مند (والمَشْهَوِيُّ) مرغوب۔ کہا جاتا ہے "شَيْءٌ شَهْوِيٌّ" لذیذ چیز۔

الشَّهْوَانُ - مؤنث شَهْوَانِيٌّ - جن شَهَاوِيٌّ وِ(الشَّهْوَانِيٌّ) خواہش مند۔

الشَّاهِيَةُ - خواہش۔

شَابٌ يَشُوبُ شَوْقًا وشَيْبَانًا - الشَّيْءُ: ملتا الرَّجُلُ: خیات کرنا۔ دھوکا دینا (و شَوْبٌ تَشُوبُ عَيْنَهُ: آنکھی سے ہٹانا۔

إِنْشَابٌ إِنْشِيَابًا وِاشْتَابٌ اِشْتِيَابًا - ملنا۔

الشَّوْبُ - مہ۔ وہ چیز جو دوسرے سے ملاتی جائے۔ گندھے ہوئے آنے کا پتلا۔ شہد۔

الشَّوْبَةُ - اسم مرقہ۔ دھوکا۔

الشَّائِبَةُ - الشَّائِبُ - کامؤنث۔ اور شَوَائِبُ - کلاحد۔ بمعنی عیوب۔

الشَّيَابُ - مہ۔ ملاوٹ۔

لَيْلَةُ (الشَّيْبَاءِ) - مینے کی آخری رات۔

المَشُوبُ وِالمَشِيْبُ - ملاہوا۔

المَشَاوِبُ - بولٹ کاغلاف۔ جن مَشَاوِبُ - شَوْحُ - الشَّيْءُ: انکار کرنا۔ نہ پہچانا۔

الشُّوْحَةُ - جیل۔ ایک درخت جس کی شاخیں مخروطی شکل کی ہوتی ہیں۔ اور یہ (الشُّوْحُ) کلاحد ہے۔

الشُّوْحَطُ - ایک درخت جس کی لکڑی سے کمان بنائی جاتی ہے۔ واحد (الشُّوْحَطَةُ)

شَوَّذْتُ - الشَّمْسُ: مائل غروب ہونا۔ شَوَّذَ السَّحَابُ الشَّمْسَ: ڈھا کٹنا۔ گھیر لینا۔

ہ: کسی کو عمامہ باندھنا۔

تَشَوَّذُوا اِشْتَادَ - بگڑی باندھنا۔

الأَشَاوِذُ - مخلوق۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خَيْرٌ الأَشَاوِذِ" وہ مخلوق میں بہتر ہے۔

المَشْوُودُ وِالمَشْوَاؤُ - عمامہ۔ بادشاہ۔ سردار۔ جن مَشَاوِدُ وِمَشَاوِيْدُ۔

شَارٌ يَشُوْرُ شُوْرًا وشِيَارًا وشِيَارَةً وِمَشَارًا وِمَشَارَةً - العَسَلُ: چھتے سے شہد نکالنا۔ صفت مفعولی (مَشُوْرٌ) (شُوْرًا وِشُوَارًا) الذَّابَّةُ: جانور کو سدھانا۔ تجربہ کیلئے سوار ہونا۔ خریدار کو دکھانے کیلئے سوار ہونا۔

شَارَتِ الإِبِلُ: اونٹ کا موٹا خوبصورت ہونا۔ شُوْرٌ - الذَّابَّةُ: جانور کو سدھانا۔ تجربہ کے لئے سوار ہونا۔ خریدار کو دکھانے کیلئے سوار ہونا۔

یہ: شرمندہ کرنا۔ إِلَيْهِ: اشارہ کرنا۔

النَّارُ وِبالنَّارِ: آگ کو بلند کرنا۔

أَشَارَ - العَسَلُ وِالذَّابَّةُ: بمعنی شَارَهُمَا

النَّارُ وِبالنَّارِ: آگ کو بلند کرنا۔ یہ پتھر تھا۔ أَسَارَ إِلَيْهِ وِأَسَارَ يَبِيْدُهُ: اشارہ کرنا۔

عَلَيْهِ: حکم رہنا۔ نصیحت کرنا۔ صحیح طریقہ بتانا۔ فَلَانًا: عَسَلًا: شہد نکالنے میں مدد رہنا۔

أَشُوْرُ اِشُوَارًا - النَّارُ وِبالنَّارِ: آگ کو بلند کرنا۔

شَارُوْرَةٌ فِي الأَمْرِ: مشورہ طلب کرنا۔

اِشْتَارَ اِشْتِيَارًا - العَسَلُ: شہد نکالنا۔ اِشْتَارَتِ الإِبِلُ: اونٹ کا کچھ موٹا ہونا۔

تَشُوْرٌ - شرمندہ ہونا۔

تَشَاوَرُوا وِاشْتَوَرُوا - القَوْمُ: باہم مشورہ کرنا۔ اِسْتَشَارَ - عہد لباس پہننا۔ العَسَلُ: شہد نکالنا۔ اِمْتَشَارَتِ الإِبِلُ: موٹا خوبصورت ہونا۔ اِسْتَشَارَ الأَمْرُ: واضح و روشن ہونا۔

ہ: مشورہ طلب کرنا۔

الشُّوْرُ - مہ۔ شہد جو چھتے سے نکالا جائے۔

الشَّارَةُ وِالشُّوْرَةُ وِالشُّوْرَةُ وِالشُّوَارُ وِالشُّوَارُ وِالشُّوَارُ وِالشُّوَارُ - حسن وجمال۔ بیت۔ منظر۔ لباس و زینت۔ گھڑ کا عہد سلمان۔ کہا جاتا ہے "رَبِيعٌ شُوَارٌ" نرم ہوا۔ و "خَيْلٌ شِيَارٌ" خوبصورت موٹے گھوڑے۔

الشُّوْرَةُ: شہد کا چھتہ۔

الشُّوَارُ - اندام ننانی۔

الشُّوْرَةُ - شار کا اسم مرقہ۔ شرمندگی۔ الشُّوْرِيٌّ - ایک قسم کی دریائی گھاس۔

الشُّوْرِيٌّ - اسم ہے "تَشَاوَرُوا" کا یا اِشَارَ عَلَيْهِ - کا مجلس شُوْرِيٌّ: کونسل و "تَوَكَّلْ عَمْرُ الخِلاْفَةُ شُوْرِيٌّ" کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بیٹھنے نے مسئلہ خلافت کو باہم مشورہ کے لیے چھوڑ دیا۔

الشُّيْرُ - خوبصورت۔ جس سے مشورہ کیا جائے۔ وزیر۔ جن شُوْرَاءُ۔

المَشَارُ - شہد کا چھتہ۔

المَشَارَةُ - قابل کاشت زمین کا ٹکڑا۔ جن مَشَاوِرُ وِمَشَاوِيْرُ۔

المَشُوْرُ - مہ۔ آراستہ۔ مزین۔

الجَمَلُ بِالْقَطْرَانِ : اونٹ پر قطران ملنا۔
شَيْفَتُ الْجَارِيَةِ : بناؤ سنگھار کیا جانا۔
شَوْفُ الْجَارِيَةِ : لڑکی کا بناؤ سنگھار کرنا۔
مزین کرنا۔ آراستہ کرنا۔

أَشَافٌ إِشَافَةٌ عَلَيْهِ : اوپر سے جھانکنا
وَمَنْهُ : خوف کھانا۔ الشَّيْءُ : بلند ہونا۔
تَشَوَّفٌ تَشَوُّفًا : مزین ہونا۔ مِنْ
السَّطْحِ : دیکھنا۔ اوپر سے جھانکنا۔ إِلَى
الشَّيْءِ : جھانکنا۔ الشَّيْءُ : بلند ہونا۔

إِشْتِافٌ إِشْتِافًا : إِلَيْهِ : گردن اٹھا کے
دیکھنا۔ النَّبِيُّ : بچل کو بائیسید بارش دیکھنا۔
وَإِشْتِافٌ الْجُنْحُ : زخمِ سخت ہونا۔
الشَّوْفُ : مہ۔ بیگا۔

الشَّيْفَانِ : آنکھ میں استعمال کرنے کی دوا کی
تی۔

الشَّيْفَةُ وَالشَّيْفَانُ : دیدبان۔ دشمن کی
حرکت کی دیکھ بھال کرنے والا۔

الشَّوْفَانِ مِنَ الرِّجَالِ : تیز نظروالا۔
المَشْوُوفُ : مہ۔ آراستہ کیا ہوا۔ مِنْ
الجَمَالِ : قطران ملا ہوا اونٹ۔

شَاقِبِي يَشْوُقِي شَوْقًا وَتَشَوُّاقًا :
الحُبُّ إِلَيْهِ : شوق دلانا۔ صفت مفعولی
(مَشْوُوقٌ) و صفت فاعلی (شَاقِقٌ) شَاقٌ
الْقُرْبَى : محک کو دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا کرنا۔
صفت مفعولی (مَشْوُوقَةٌ) : الطَّلَبُ إِلَى
الْوَتْدِ : خیمہ کی رسیوں کو کھونٹے میں باندھنا۔
أَشَافَةٌ أَشَافَةٌ : شائقینا۔

شَوْقُهُ إِلَيْهِ : شوق کرنے پر برا بھلا کہنا۔
تَشَوُّقٌ : الشَّيْءِ وَاللَّيْهِ : بہت شوق ظاہر کرنا۔
إِشْتِاقُهُ : وَإِشْتِاقُ إِلَيْهِ : بہت خواہش کرنا۔
الشَّوْقُ : مہ۔ سخت خواہش۔ جِ أَشْوَاقٍ :
الشَّيْقَاقُ وَالشَّيْقُ : وہ چیز جس سے کسی چیز کو
بھینچ کر دوسری چیز میں باندھیں جیسے خیمہ کی
طنابیں۔

الشَّيْقُ : آرزو مند۔
الرَّجُلُ (الْأَشْوَقُ) : لبا مرد۔ جِ شَوْقٍ :
الشَّوْقُ : عَشَاقٌ :
شَاكَةٌ يَشْوُكُهُ شَوْكًا : کاٹنا جھانکا۔ شَاكَتُهُ

الرَّجُلُ : ڈاڑھ یا پیٹ کے در دو والا ہونا۔
الجَيْنِيُّ : جینن کا ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا
بِهِ الْعَزْقُ : رگ کا حرکت کرنا۔ فَلَانٌ
بِفَلَانٍ : کسی کا کسی پر شرکو برا بھلا کہنا۔

شَوَّصَتْ (س) شَوَّصًا : عَيْشُهُ : اتنی موٹی
ہونا جس سے دونوں بچیں نہ مل سکیں۔ بہت
بھڑکنے والی بچوں والی ہونا۔ جس کو یہ کیفیت لاحق
ہو اس کو (أَشْوُوصٌ) کہتے ہیں اور آنکھ کی صفت
(شَوَّصَاءُ) جِ شَوَّصٌ :۔

شَوَّصٌ تَشَوِّصًا وَأَشَاصٌ إِشَاصَةً
الرَّجُلُ : بسواک کرنا۔
الشَّوَّصَةُ : رگ کی حرکت۔ پیلیوں کے پردہ کا
ورم۔ بہت کاریاجی درد۔

الشَّيْصَاءُ : بد خلقی۔
شَاطِطٌ يَشْوُطُ شَوْطًا : بِهِ الْعَضْبُ : بھڑکانا۔

شَوْطٌ : لبا سفر کرنا۔ الْقِدْرُ : ہانڈی کا
جوش دینا۔ اللَّحْمُ : گوشت پکانا۔
الصَّقِيعُ النَّبَاتُ : پالے لانا تاک کو جلا کرنا۔
تَشَوُّطٌ : الفَرْسُ : گھوڑے کو چلا کر تھکانا۔
الشَّوْطُ : غایت۔ پکر۔ غایت تک ایک مرتبہ
دوڑ۔ کہا جاتا ہے ”جَزَى الْفَرَسُ شَوْطًا“
گھوڑے نے ایک پکر لگایا۔ جِ أَشْوَاطٍ :۔

شَاطِطٌ يَشْوُطُ شَوْطًا : بِفَلَانٍ : گالی دینا
بِهِ الْعَضْبُ : غصہ بھڑکانا۔
تَشَاوُظٌ : الْقَوْمُ : باہم گالی گلوچ کرنا۔

الشَّوَاظُ وَالشَّوَاظُ : بغیر دھوئیں کا شعلہ۔
آگ یا دھوپ کی گرمی۔ پیاس کی شدت۔ جِج و
پکار۔ گالی گلوچ۔

شَوْعٌ يَشْوَعُ شَوْعًا : الرَّاضُ : پراگندہ اور
گرد آلود بالوں والا ہونا۔ الْفَرْسُ : ایک
رخسارے میں سفیدی والا ہونا۔ صفت (أَشْوَعٌ)
مؤنث شَوْعَاءُ۔ جِ شَوْعٌ :۔

شَوْعٌ تَشْوِيعًا : الْقَوْمُ : جمع کرنا۔
الشَّوْعُ : بان کا درخت۔ واحد شَوْعَةٌ جِ
شَيْتَاعٌ :۔

المَشْوَاعُ : تھور کی آگ ہلانے کی جِج۔ (اس کی
اصل مَشْيَاعٌ ہے۔)
شَافَةٌ يَشْوُفُهُ شَوْفًا : جھیل کرنا۔

المَشْوَرُ : شد نکلنے کا آلہ۔ جِ مَشَاوِرُ۔
المَشِيرَةُ : مَا فِي اصطلاح أَرْبَابِ
السياسة : کونسل۔ المَشِيرِيَّةُ : کونسل کا
درجہ۔

المَشِيرَةُ : انگشت سبب۔
المَشْوَرَةُ وَالْمَشْوَرَةُ : أَشَارَ عَلَيْهِ كَمَا
اسم۔ مشورہ۔ نصیحت۔ جِ مَشْوَرَاتٌ :۔

المَشْوَارُ : منظر۔ جانوروں کو دکھانے کی جگہ۔
شد نکلنے کا آلہ۔ دُصْنُ كِي مَكَانٍ كِي تَانَتْ : جِ
مَشَاوِيرُ : کہا جاتا ہے ”أَخَذَتِ الْخَيْلُ
مَشَاوِرَهَا“ یعنی کھوڑے موٹے اور
خوبصورت ہوئے۔

المَشْوَارَةُ : شد نکلنے کی جگہ۔
شَوَّرَ (شِيرَ بِهِ شَوَّرًا) عَلَى الْمَجْهُولِ :
فریفت ہونا۔

الأَشْوَرُ : مغرور۔ متکبر۔
المَشْوَرُ : بے آرام۔

شَاشٌ يَشَاشُ وَشَوْشٌ يَشْوُشُ شَوْسًا
وَتَشَاوَسَ : غصہ یا تکبر کی بنا پر ترچی نظر سے
دیکھنا۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں چھوٹی کرنا۔ لِزَأَى
میں بہت ڈلیر ہونا۔ صفت (أَشْوَسٌ) مؤنث
شَوْسَاءُ۔ جِ شَوْسٌ : الشَّوْسُ : بے۔ اور کہا
جاتا ہے ”رُئِيَ فَلَانٌ يَحْطُوبُ شَوْسًا“
فلاں کے اوپر سخت مہمیتیں پڑیں۔

تَشَاوَسَ تَشَاوَسًا : بھتی شَوْسٌ : نخوت و
تکبر ظاہر کرنا۔
شَوْسٌ : الأَمْرُ : مخلوط کرنا۔ بے ترتیب کرنا۔
تَشَوُّشٌ : عَلَيْهِ الأَمْرُ : مخلوط ہونا۔ گڑبڑ
ہونا۔

تَشَاوَسَ : الْقَوْمُ : گڈ گڈ ہونا۔
الشَّوَاشُ : اِخْتِلافٌ وَاضْطْرَابٌ :۔
عِبَارَةٌ (مَشْوُوشَةٌ) تَرْكِبٌ يَأْتِي مِنَ الْفَاعِلِ
نادرست عبارت۔

الشَّوَاوِشُ : سارجنٹ۔ (جدید)
شَاصَةٌ يَشْوُصُهُ وَيَشَاصُهُ شَوْصًا : جگہ
سے ہلانا۔ ہاتھ سے ملنا۔ دھونا۔ شَاصٌ فَاهُ
بِالسَّوَاكِ : منہ کو بسواک سے صاف کرنا
شَوْصًا وَشَوْصًا : بھڑکانا۔

الشُّوكَةُ: کانا چھتا۔

شَاكَ يَشَاكُ شَاكَةً وَشَيْكَةً: کائٹوں میں پڑنا۔ هُ بِالشُّوكَةِ: کانا چھبانا۔ الشُّوكُ: کائٹوں میں پڑنا (شُوْكًا) شوکت ظاہر ہونا۔ لِحْيَا التَّبَعِيْرِ: لمبے داغوں والا ہونا۔ لُدَى الْجَارِيَةِ: نمودار ہونا شروع ہونا۔

شَيْكٌ: کانا چھبنا۔ الْجَسَدُ: بدن پر سرخ پھنسیاں ظاہر ہونا۔ صَفْتٌ (مَشُوْكٌ) أَشَاكَةٌ: کانا چھبانا۔ أَشُوْكُ الْمَكَانِ: کائٹوں والی ہونا۔ أَشُوْكٌ الشَّجَرَةُ: خاردار یا بہت کائٹوں والا ہونا۔ صَفْتٌ (مَشُوْكَةٌ) شُوْكٌ الشَّجَرِ: درخت کا خاردار ہونا۔

كَلَسَ كَلَسًا: الحَايِطُ: دیوار پر کانٹے رکھنا۔ الْفُرْخُ: چوزے کا نٹ پر نکالنا۔ شَابِرٌ الْفَلَامُ: لڑکے کی سوچھ کا سخت ہونا۔ الزَّائِسُ بَعْدَ الْحَلْقِ: سر میں نئے بال لگانا۔

الشُّوكُ: مہ۔ کانا۔ جِ أَشُوَاكٌ وَاحِدٌ (شُوْكَةٌ)

الشُّوكَةُ: شوک کا واحد۔ چھو کا ڈنک۔ سرخ پھنسی۔ تیمار اور اس کی تیزی۔ قوت و طاقت۔ وَعَمِنُ كَتِيفِ رَسَالِيٍّ كَمَا جَاءَ فِي "لَا تَشُوْكُكَ مَنِيَّ شُوْكَةٌ" یعنی مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ شُوْكَةُ الْحَاثِكِ: تانا بنا درست کرنے کا آلہ۔ الشُّوكَةُ الْمُبَارَكَةُ وَالشُّوكَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالشُّوكَةُ الْبَيْضَاءُ: جڑی بوٹیوں کے نام ہیں۔ رِيحُ الشُّوكَةِ: ایک تکلیف دہ پھنسی جو عموماً ہاتھ کے انگوٹھے میں ہوتی ہے۔

الشَّاكُ: جِ شَاكَةٌ وَالشُّوكُ (الشُّوكُ) خَارِدَارٌ شَاكٌ السِّلَاحِ وَشُوْكُ السِّلَاحِ: ہتھیاروں سے سَخُ اور (شَاكٌ السِّلَاحِ) بالشدید اور (شَاكُ السِّلَاحِ) بالتحفیف اور (شَاكِي السِّلَاحِ) بھی مستعمل ہیں۔ اَرْضٌ اور شَجَرَةٌ شَاكَةٌ: بہت کائٹوں والی زمین یا درخت۔

الأشُّوكُ مِنَ الشَّيَابِ وَنَحْوِهَا: کمردار۔ مَوْنَةٌ شُوْكَاءٌ۔

الشُّوْكِرَانُ: ایک زہریلا پودا۔ (دخیل) قَالَ يَشُوْلُ شُوْلًا وَشُوْلَانًا: الذَّبْتُ وَغَيْرِهِ: اٹھنا۔ بلند ہونا۔ شَالَ الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ: اٹھنا۔ بلند کرتا۔

الْمِيزَانُ: ترازو کے ایک پلڑے کا اونچا ہونا۔ شَالَتْ الْقَرْيَةُ أَوْ الرُّقْ: چھوٹنے یا بھرنے کی وجہ سے ٹھک کی ٹانگوں کا کھڑا ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَالَتْ نَعَامَتُهُ" وہ ہلکا ہوا وہ ٹھیکتا ہوا پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ گرمیاں۔ وَ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ: انہوں نے اپنے مکانات خالی کر دیے اور متفرق ہو گئے یا ان کا اتفاق ٹوٹ گیا اور ان کی عزت جاتی رہی۔

أَشَالَ: الشَّيْءُ: بلند کرنا۔ اٹھانا۔ شُوْلٌ تَشُوْلًا: لَبِنُ النَّاقَةِ: اونٹنی کے دودھ کا کم ہونا۔ كُنْثَا: شُوْلَتِ التَّوْقُ: دودھ ٹھک ہونا۔ شُوْلُ الْمَاءِ: کم ہونا۔ الْمَرْأَةُ: کہ پانی والا ہونا۔ فِي الْمَرْأَةِ: تھوڑا پانی باقی رکھنا۔

شَاوَلٌ الْحَجَرِ: اٹھانا۔ وہ وہ: ہٹانا۔ وَ تَشَاوَلٌ: ایک دوسرے پر نیزہ سے حملہ کرتا۔

إِنْشَالَ الْبَيْتَ: بلند ہونا۔ اِنْشَالَ اِنْشِيَالًا: بلند ہونا۔ لَهُ: تَعْرُضُ: کرتا۔ گل دیتا۔

اسْتَشَالَتِ النَّاقَةُ ذَنْبَهَا: اونٹنی کا دم کو اٹھانا۔

الشُّوْلُ: مہ۔ سبک ہلکا ڈول وغیرہ کا پتیر پانی۔ تھوڑا پانی۔ جِ أَشُوَالٌ۔

الشُّوْلُ: کام اور خدمت میں بہت۔ الشُّوْلَةُ: اسم مرۃ۔ چھو کے ڈنک کا وہ حصہ جو اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ مِنَ الْبَيْسَاءِ: بیوقوف عورت۔

شُوْلَةٌ وَشُوَالَةٌ: چھو کا اسم علم۔ الشُّوَالَةُ: جھل خور عورت۔

الشُّوَالُ: عِنْدَ الْعَامَّةِ: بالوں یا اون کا بڑا بورا (یعنی اقل کی تحریف ہے)

الشَّالُ: کنسوں پر ڈالنے کی چادر۔ جِ شَيْلَانٌ وَشَالَاتٌ: اور (الشَّالَةُ) اخص ہے (اعجمیہ) النَّاقَةُ الشَّائِلُ: بغير دودھ والی مستی کے وقت دم اٹھانے والی اونٹنی۔ جِ شُوْلٌ وَشُوَالٌ وَشَيْلٌ وَشَيْلٌ۔

الشَّائِلَةُ: الشَّائِلُ كَمَا مَوْنَتْ مِنْ الْإِبِلِ: اونٹنی جس کے حمل کو بیاہود وضع حمل کے سات میں سے ہونے کی ہوں اور دودھ ٹھک ہو گیا ہو۔ جِ شُوْلٌ وَأَشُوَالٌ وَشُوَالِیلٌ۔

شُوَالٌ: قمری سال کا دسواں مہینہ اور کبھی الف لام داخل کر کے الشُّوَالُ بھی کہا جاتا ہے۔

جِ شُوَالَاتٌ: رُجُ شُوَاوِیلٌ۔ الْمَشُوْلُ: چھوٹی دائری۔

المَشُوَالُ: چھوڑ پھلٹ کی آزمائش کے لیے اٹھایا جائے۔

شَانٌ يَشُوْنُ شُوْنًا: التَّوْفُوسُ: دماغ کے کیڑے نکالنے کے لیے سر کو کھولنا۔

تَشُوْنٌ: کم غسل ہونا۔

الشُّوْنَةُ: بیوقوف عورت۔

الشُّوْنَةُ: غلہ جمع کرنے کی جگہ۔ جگلی جماز۔ جِ شُوَانٌ۔

الشُّوَانُ: غلہ جمع کرنے والا۔

شَاهٌ يَشُوْهُ شُوْهًا وَشُوْهَةً: الْوَجْهُ: چہرہ بد شکل ہونا۔ الزَّجَلُ: خوفزدہ کرنا۔ گھبرا دینا۔ حد کرنا۔ نظرد لگانا۔ کہا جاتا ہے "شَاهَتْ نَفْسُهُ إِلَى كَذَا" اس نے لالاس چیز پر آنکھ نکالی۔ شُوْهُ يَشُوْهُ شُوْهًا: الْوَجْهُ: چہرہ کا بد شکل ہونا۔ الْعُنُقُ: گردن لمبی ہونا۔ چھوٹی ہونا۔

(ضد)

شُوْهُ اللَّوْءُ وَجْهَهُ: چہرہ کا بد شکل بنانا۔ کہا جاتا ہے "لَا تَشُوْهُ عَلَيَّ" مجھے نظرد نہ لگاؤ۔

تَشُوْهُ: بد شکل ہونا۔ تَشُوْهُ الزَّجَلُ شَاهٌ: شکار کرنا۔ لِفْلَانٌ: اسے آپ کو کسی کیلئے

باشناس کرنا۔ نظرد لگانے کیلئے کسی کی طرف نگاہ اٹھانا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَشُوْهُ أَهْوَالَ النَّاسِ لِیَصِیْبَهَا بِالْعَيْنِ" وہ نظرد لگانے کیلئے لوگوں کے احوال کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔

الشُّوْهُ: مہ۔ بد شکل۔ خوبصورتی (ضد) گردن

الشیب: برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ۔
 الشایب - نا - سفید سروالا - مؤنث شائبة۔
 ج شیب - مانند کے طور پر "شیب شایب"
 کہا جاتا ہے مانند لیل لائل کے۔
 یوم (شبیان) اولہ برف بادل کا دن ()
 و شبیان ماہ دسمبر (چونکہ اس ماہ میں برف اولہ
 کی وجہ سے زمین سفید رہتی ہے)۔
 الشیبة اسم مرفوعہ شباب کا اسم - ایک پودہ ہے
 جس کا نام (افستین) ہے۔
 الشیخان - مذی وغیرہ کی جمعوی لکڑی۔
 شاح یشیح شیخا - علی حاجتہ:
 چونکہ رہتا - کوشش کرنا۔
 شیحہ - ذرنا - شیح خصمہ: تنگ
 نگاہوں سے دیکھنا۔
 اشاح اشاحہ فی امرہ: کوشش کرنا۔
 چونکہ رہتا - محتاط رہنا _____ وجہہ و بوجہہ
 و اشاح عنہ وجہہ: نفرت سے منہ پھیر لینا
 _____ المکان: شیخ نامی گھاس آگاتا
 الفرس یدئبہ: گھوڑے کا دم کو ڈھیل پھوڑ
 رتا۔
 شایح مشایحہ و شیاخا - جگ کرنا فی
 الأمر: کوشش کرنا۔
 الشیح - ایک قسم کی گھاس - واحد (شیخہ)
 _____ من الرجال: کاموں میں کوشش کرنے
 والا - چونکہ رہتا والا۔
 الشیاح - ہم - کوشش - احتیاط - قبط۔
 الشیحان والشیحان والمشیح - لباب۔
 غیرت مند - محتاط۔
 شاح یشیح شیخا و شیوخہ
 و شیوخہ و شیوخیۃ و شیوخیۃ
 و شیوخیۃ و شیوخیۃ - بوڑھا ہونا۔
 شیخ - بوڑھا ہونا _____ ہ: تعظیم کیلئے شیخ
 کہہ کے پکارا _____ علیہ: عیب لگانا - طعن د
 تفتیح کرنا _____ بہ: رسوا کرنا۔
 تشیح - بوڑھا ہونا۔
 الشیح - بڑھا - ج شیوخ و شیوخ
 و أشیخ و شیخہ و شیخہ و شیخان -
 و مشیخہ و مشیخہ و ج مشایخ

جسم کے اطراف - وہ اعضاء جن پر زخم لگنے سے
 قتل واقع نہ ہو (_____ الشؤاة) کھوپڑی کا چڑا۔
 الشؤاء و الشؤاء - بھنا ہوا گوشت وغیرہ
 و الشؤاة و الشؤاة و الشؤاة بجنے
 ہوئے گوشت وغیرہ کا ایک ٹکڑا۔
 الشؤاء - گوشت بھوننے والا۔
 الشؤایة و الشؤایة و الشؤایة و الشؤایة
 من المال: روزی مال - ہلاک شدہ قوم یا مال کا
 بقیہ - ج شؤاینا سغفة (شؤایة) درخت خرما کی
 خشک شاخ۔
 الشوی - بھنا ہوا گوشت۔
 المشؤاة - گوشت بھوننے کا آلہ - ج مَشَاو۔
 شَاءَ وَ شَاءَ وَ شَاءَ وَ مَشَاءَ وَ مَشَاءَ
 وَ مَشَائِيَّةٌ - چاہنا - صفت ناقص (شَاءَ) اور صفت
 مفعول (مَشِيئٌ) _____ اللہ الشئی: مقدر کرنا۔
 تعجب کے موقع پر "ماشاء اللہ" کہا جاتا ہے۔
 شِئَاءٌ عَلَى الْأَمْرِ: براگیتی کرنا۔ شِئَاءُ اللَّهِ
 وَ جِهَةٌ: چہرہ کا رخ بنانا۔
 أَسَاءَ إِلَيْهِ إِسَاءَةً - مجبور کرنا۔
 تَشَاءُ تَشِيئًا: غصہ ٹھنڈا ہونا۔
 الشئی - ہم - چیز جس کے ساتھ علم و خبر کا تعلق
 ہو سکے۔ ج اشیاء ج اَشْوَئٌ و اَشْيَاوَات
 و اَشْوَات و اَشْيَا - اور تصغیر شِئٌ و شِئِي
 اور اَشْيَاءُ کاکلمہ غیر مصرف ہے۔
 الشیئۃ - شَاءَ کا اسم (_____ والمشیئۃ)
 ارادہ۔
 المشیئاً - بد شکل - ناہموار صورت والا۔
 شَاب یشیب شَبِيًا وَ شَبِيَّةً وَ مَشِيئًا -
 سفید بالوں والا ہونا - بوڑھا ہونا - صفت مذکر
 (أَشِيْبٌ وَ شَائِبٌ) صفت مؤنث (شَائِيَّةٌ) ()
 مؤنث کی صفت میں شَبِيَّةٌ نہیں بلکہ شَمَطَاءُ
 آتا ہے) کہا جاتا ہے (شَابَتْ زُرُوفُ الْأَحْجَامِ"
 ٹیلوں کی چوٹیاں برف سے سفید ہو گئیں۔
 أَشَابَ - الزَّجُلُ: بوڑھی اولاد والا ہونا۔
 أَشَابَ وَ شَيْبَ - الْحَزْنُ فَلَأْنَا وَ بَقْلَانِ:
 غم کا بوڑھا کرنا۔
 الْأَشْيَبُ - سفید سروالا _____ من الأيام:
 برف و بادل والا دن - ج شَيْبٌ وَ شَيْبٌ

کی لمبائی و لمبائی - سر بلند کرنا۔
 الشؤة - دوری - بد شکل۔
 الشاہ - بادشاہ نسبت کیلئے (شاهی و شاہلی)
 الشاہ - حد کرنے والا - ج شؤہ۔
 شَاهِبٌ - سودا گروں کا رئیس۔
 شَاهِبْلُوطٌ - شاہ بلوط کا درخت۔
 زَجَلٌ (شَاهُ الْبَصْرِ وَ شَائِيَّةٌ وَ شَاهِيَّةٌ):
 تیز نظر والا۔
 الشاة - بکری - بکرا - جنگلی گائے - ج شَاء
 و شِيَاه و شِيَاه و شِيَاه و شِيَاه و شِيَاه
 و شِيَاه و شِيَاه کی تصغیر شَوِيَّةٌ وَ شَوِيَّةٌ ج
 شَوِيَّاتٌ اور نسبت کے لیے شَاوِيٌّ جیسے
 سَمَاءٌ سَمَاوِيٌّ۔
 الشاهي - بکری والا۔
 الاشؤہ - بد شکل - جلدی نظر پر لگانے والا۔
 حکیر - مؤنث شؤہاء - ج شؤة الشؤہاء۔
 ترش رو عورت - بد شکل عورت - خوبصورت
 عورت (ضد) نحوس عورت - فرس شؤہاء۔
 تیز نگاہ والا گھوڑا - أَرَضٌ (مَشَاهَةٌ) بہت بکریوں
 والی زمین۔
 المشؤہ - بد شکل: ناہموار شکل و صورت
 والا۔
 شَوِيٌّ يَشْوِي شِيَاءً - اللَّحْمُ: گوشت کو
 آگ میں بھوننا - صفت مفعول (مَشْوِيٌّ)
 الماء: پانی گرم کرنا۔
 شَوِيٌّ وَ شَوِيٌّ - الْقَوْمُ: بھنا ہوا گوشت
 کھانا _____ الزَّجُلُ: جسم کے ایسے حصہ پر
 زخم لگانا جس سے قتل واقع نہ ہو - أَشْوِيٌّ
 السَّهْمُ: تیر کا نشانہ سے چوک جانا - أَشْوِيٌّ
 الزَّرْعُ: بھوننے کے قابل ہونا _____
 الزَّجُلُ: رات کے کھانے سے کچھ چھوڑنا۔
 گھٹیا مال جمع کرنا - أَشْوِيٌّ السَّعْفُ: درخت
 خرما کی شاخ کا خشک ہو کر زرد پڑنا - اور اسی سے
 ہے "مَا أَغْيَاهَا مَا أَشْوَاهُ" وہ کس قدر کمزور
 ہے۔
 اِنشَوِيٌّ اِنشَوَاءً و اِنشَوِيٌّ اِنشَوَاءً -
 بھن جانا - اِنشَوِيٌّ الزَّجُلُ: بھوننا۔
 الشؤی - گھٹیا مال - آسان معاملہ - ہاتھ پیر

ہے "شَاعَكُمْ السَّلَامُ وَشَاعَكُمْ اللَّهُ بِالسَّلَامِ" یعنی سلامتی تمہارے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ سلامتی کو تمہارے ساتھ کریں۔

أَشَاعَ إِشَاعَةً: الخَبِيرُ وَبِالْخَبِيرِ: بھیلانا اور کہا جاتا ہے "أَشَاعَكُمْ اللَّهُ السَّلَامُ وَبِالسَّلَامِ" اللہ تعالیٰ سلامتی کو تمہارے ساتھ کریں۔ أَشَاعَ بِالْإِبِلِ: چھپے رہے ہوئے اونٹ کو بلانا۔

شَيْعَةٌ: رخصت کرنے یا مکان تک پہنچانے کیلئے ہمراہ جانا۔ شَيْعَ شَهْرًا مَضَانًا: شش عید کے روزے رکھنا۔ الزَّجَلُ: جرات دلانا۔ قوی کرنا۔ النَّارُ: آگ تیز کرنے کے لیے لکڑیاں ڈالنا۔ الشَّيْءُ بِالنَّارِ: جلانا۔ الرَّجُلُ: شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ الشَّيْءُ: کسی چیز کو بھیجنا اور اس کے پیچھے جانا۔ شَائِعَةٌ: کام کے لیے کسی کے ہمراہ جانا۔ شَائِعَ بِهِمُ الدَّلِيلُ: رہنما کا لوگوں کو پکارنا۔ بِالْإِبِلِ: پکارنا "آواز دینا۔ تَشَيْعَ: شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اللَّبَنُ فِي الْمَاءِ: بکھرا۔ هَالِغُ الْعَضْبِ: دل میں غم بھرا۔ فَلَانٌ فِي الشَّيْءِ: کسی چیز کی محبت میں ہلاک ہونا۔ هَالِغُ الشَّيْبِ: بڑھاپا مانگیا ہونا۔ تَشَائِعَ تَشَائِعًا: الْقَوْمُ: مختلف گروہ ہونا۔ تَشَائِعُوا عَلَى الْأَمْرِ: باہم موافق ہونا۔ تَشَائِعُوا فِي الدَّارِ: شریک ہونا۔ تَشَائِعَتِ الْإِبِلُ: متفرق ہونا۔ إِشَاعًا إِشَاعًا: فِي الدَّارِ: شریک ہونا۔ الشَّيْعُ: مہ۔ مہدار۔ مہل۔ جِ أَشَاعَ: کہا جاتا ہے "هَذَا شَيْعٌ ذَاكُ" یہ اس کے مہل ہے اور اسی سے ہے "كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاعِهِمْ" یعنی جیسا ان کے امثال کے ساتھ کیا گیا۔ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرًا أَوْ شَيْعَ شَهْرٍ: میں نے اس کے پاس ایک مہینہ یا ایک مہینہ کے بقدر اقامت کی۔ وَ"كَانَ مَعَهُ مِائَةٌ رَجُلٌ أَوْ شَيْعٌ ذَلِكَ" اس کے ساتھ سو آدمی یا اسی کے بقدر تھے۔ وَ"تَرَوْهُمُ مَوْضِعَ كَذَا أَوْ شَيْعَهُ" وہ لوگ فلاں مقام میں یا اس کے قریب

(شَيْعَاءَةٌ) الْمَشَائِصَةُ: ایک دوسرے سے جدائی۔ منافرت۔

شَاظَ يَشِيظُ شَيْظًا وَشَيْطَانَةً وَشَيْطَوَظَةً: الشَّيْءُ: جانا۔ شَاظَتِ الْقِدْرُ: ہانڈی کی تلی میں جلی ہوئی چیز کا لگنا۔ شَاظَ الزَّيْتُ: زیتون کے تیل کا گاڑھا ہونا۔ شَاظَتِ الدَّيْبِيحَةُ: ذبیحہ کا گوشت تقسیم ہو کر ختم ہو جانا۔ فَلَانٌ: ہلاک ہونا۔ فِي الْأَمْرِ: جلدی کرنا۔ دَمَهُ: بیکار جانا۔ فَلَانٌ الدِّمَاءُ: ملنا۔ یعنی قاتل کو مقتول کے خون پر قتل کرنا۔

شَيْطَ وَأَشَاظَ: الْأَصْفِيغُ النَّبْتُ أَوِ الدَّوَاءُ الْحَرْحُ: جانا۔ الرَّاسُ أَوْ الْكُرَاعُ: سری یا پائے کے بالوں کو جلانے کے لیے جھلنا۔ الْقِدْرُ: ہانڈی کو جوش دینا۔ أَشَاظَ فَلَانًا: ہلاک کرنا۔ أَشَاظَ اللَّحْمَ عَلَى الْقَوْمِ: گوشت تقسیم کرنا۔ أَشَاظَ السُّلْطَانَ دَمَهُ وَبَدْمِهِ: قتل کرنے کے لیے سامنے لانا۔ تَشَيْظَ: جانا۔ کثرت جماع کی وجہ سے لاغر و کمزور ہونا۔ إِشْتَاطَ إِشْتِاطًا: عَلَيْهِ: غم سے بھڑک اٹھنا۔ الْحَمَامُ: کبوتر کا خوش ہو کر اڑنا۔ مِنَ الْأَمْرِ: ہلکا ہونا۔ فِي الْحَزْبِ: اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا۔ الشَّيَاطِ: روٹی اُون وغیرہ کے جلنے کی بو۔ التَّشْيِيطُ وَالمُشْيِيطُ: گوشت جو قوم کے لیے بھونا جائے۔ الشَّطِطِي: غبار جو فضا میں بلند ہو۔ المُسْتَشْيِيطُ: بست پھینکے والا۔ مَوَاوِثُ: شَيْطَانٌ وَشَيْطَانٌ: (دیکھو بارہ شطن) شَاعَ يَشِيْعُ شَيْعًا: بِالْخَبِيرِ: خبر کو بھیلانا۔ الْإِنَاءُ: برتن کو بھرنا۔ شَاعَ يَشِيْعُ شَيْعًا وَشَيْوَعًا وَمَشَاعًا وَشَيْعَانًا وَشَيْوَعَةً: الخَبِيرُ: بھیلانا۔ فِيهِ الشَّيْبُ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔ شَاعَهُ شَيْعًا: چھپے جانا۔ ہمراہ جانا اور اسی سے

وَأَشَائِيخَ مَوْتِ شَيْخَةٍ أَوْ شَيْخٍ كِي تَصْفِيرِ شَيْخٍ وَشَيْخٍ: شَيْخُ الْمَرْأَةِ: شوہر اور شَيْخُ كَالِاطْلَاقِ: استاد۔ عالم۔ سردار قوم اور ہر اس شخص پر ہے جو لوگوں کے نزدیک علم و فضیلت و مرتبہ کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ شَيْخُ النَّارِ: ایلیس سے کنایہ ہے۔ الشَّيْخُونُ: بڑھا۔ شَادَ يَشِيْدُ شَيْدًا وَشَيْدًا: الْبِنَاءُ: عمارت کو بلند کرنا۔ الْحَائِظُ: دیوار پر گچ کرنا۔ جِلْدُهُ بِالطَّيْبِ: جسم پر خوشبو ملنا۔ شَادَ الرَّجُلُ: ہلاک ہونا (شَادَ الْإِبِلَ شَيْدًا) اونٹوں کو بلانا۔ أَشَادَةُ إِشَادَةٌ: ہلاک کرنا۔ أَشَادَ بَدْمَهُ: تعریف کر کے مشہور کرنا۔ أَشَادَ عَلَيْهِ فَيْحًا وَبِقَيْحٍ: بدنام کر کے مشہور کرنا۔ أَشَادَ عَلَيْهِ: کسی کے متعلق بڑی مشہور کرنا۔ الْمُغْتَنَى: گانے میں آواز بلند کرنا۔ أَشَادَ صَوْتَهُ وَبِصَوْتِهِ: برے طریقے سے آواز بلند کرنا۔ أَشَادَ الصَّلَاةَ: گم شدہ چیز کی تعریف کرنا۔ الْبِنْيَانُ: بسا کرنا۔ الشَّيْدُ: گچ وغیرہ کا پلستر۔ المَشْيِدُ: مہم۔ پلستر کیا ہوا () وَالمُشْيِدُ بلند کیا ہوا۔ الشَّيَارُ: یوم شنبہ۔ جِ الشُّهُورِ وَشُهِرُ وَشُهِرُ: شَيْزَةُ: البُرْدُ: برقی سے چھاری بنانا۔ الشَّيْزُ وَالشَّيْزِيُّ: آنہوس کی لکڑی یا بست سیاہ رنگ کی مضبوط لکڑی۔ أَشَاسَتْ: التَّخْلَةُ: نرم سمٹلی کی کھجور والا ہونا۔ الشَّيْشُ: نرم سمٹلی کی کھجور۔ وَالشَّيْشُ عِنْدَ الْعَامَةِ: گوشت بھوننے کی لوہے کی تاج۔ فَصِحَ لِقَدْ سَفُوْدَ: شَيْصُ: الْقَوْمُ: رنج و تکلیف پہنچانا۔ عذاب رہنا۔ شَيْصَتِ التَّخْلَةُ: ردی کھجور والا ہونا۔ الشَّيْصُ: ایک قسم کی ردی کھجور۔ ایک قسم کی مچھلی (شَيْصَةٌ)۔ الشَّيْصُ: بدخلقی۔ الشَّيْصَاءُ: نرم سمٹلی کی کھجور۔ واحد

آترے۔ "آہیک غذا و شیفہ" میں تمہارے پاس کل یا اس کے بعد آؤں گا۔
الشاعة۔ بیوی۔ بیکلی ہوئی خبریں اور یہ شائع کی جے ہے۔

شيعة۔ الزجل: بجز مدگار۔ ج شيع و أشيع و الشيعۃ: فرقہ (واحد شیعہ مع ذکر مؤنث سب کیلئے مستعمل ہے) اس لفظ کا غلبہ استعمال ان لوگوں کیلئے ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار ہیں۔ واحد (شيعی)

الشيع۔ حصہ دار۔ شریک۔ کہا جاتا ہے "هَذَا شَيْعٌ لِهَذَا" یہ اس کا حصہ دار ہے۔ ج شيعاء۔ مؤنث شيعۃ۔ کہا جاتا ہے "الذَّارِ شَيْعَةٌ يَبْتَهَمًا" گھر ان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔

الشيع۔ آگ سلگانے کی چیز۔ چرواہے کی بانسری یا اس کی آواز۔
الشيع۔ آگ سلگانے کی چیز۔

الشائع۔ تا۔ حدیث شائع و شاع بحذف عين: بیکلی ہوئی بات۔ سہم شائع و شاع: مشترک غیر منقسم حصہ۔

المشاع و المشاع۔ پھیلا ہوا۔ مشترک غیر منقسم اور اسی سے ہے "مشاع القرى" وہ جزیں جس میں آبادی کے سب لوگ شامل ہوں۔

المشيع۔ بھرا ہوا برتن۔ کینگی سے بھرا ہوا کینور۔

المشيعۃ۔ ٹوکی جس میں عورتیں رونے

رکتی ہیں۔

المشيع۔ سف۔ ہمار۔ جلد باز۔

المشيع۔ خورکی آگ بلانے کی سیخ۔ زجل و شيع: راز کو پھیلانے والا امر۔

المشيع و المشيع۔ شریک۔

شاهه يشيقه شيفا۔ الیہ: کھینچ کر باندھنا۔ کہا جاتا ہے "شاقی الظناب الی الوقت" اس نے طنابوں کو کھینچ کھینچ کر رخ سے باندھا۔

الشيقي۔ پہاڑ کی چوٹی اور بقول بعض پہاڑ کی دشوار جگہ۔ جانب پہاڑ کی ٹھگ درز۔ جانور کی دم کے بال۔ الشیقی: ایک سمندری مچھلی۔ واحد (شيقۃ)

الشيال۔ قلی۔ بوجھ اٹھانے والا۔ و (الشيالة) بوجھ اٹھانے کا پیشہ۔

شام يشيم شيفا۔ بدن میں تل والا ہونا۔

صفت (أشيم) مؤنث شيعاء۔ ج شيم و شوم۔

السيف: کوار کو میان میں کرنا۔ میان سے سوتنا۔ (ضد) التزق: بجلی کے چپکنے اور رسنے کی

ست کو دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "شام مخایل الشی" یعنی اس نے فلاں چیز کی طرف انتظار کرتے ہوئے نگاہ اٹھائی (شيمًا و شيمًا) الزجل: جم کے حملہ کرنا۔

فی الشی: داخل ہونا۔ الشی فی الشی: چھپانا۔ الشی: تخمینہ و اندازہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "شيم ما يبتهها" ان

دونوں کے درمیان اندازہ کرو۔

شيم و أشام و أشام و أشام۔ فی الشی أو الأمر: داخل ہونا۔ شيم يديه فی رأس فلان أو

نوبہ لڑائی کرنے کے لیے سرپا کپڑے کو پکڑنا۔
إنشام الرجل: منظور نظر ہونا۔

تشيم: آباء: خصلت میں باپ کے مشابہ ہونا۔
الشی فی الشی: داخل ہونا۔

الشيت فلانا: بڑھاپا غالب ہونا۔
الشاعة۔ تل۔ زمین میں سیاہ نشان۔ چاند کا

داغ۔ کالی اونٹنی۔ ج شام و شاعات۔ کہا جاتا ہے "سازوا شامهاہی البلاد" وہ لوگ شہروں میں متفرق ہو گئے۔ جس طرح تل بدن پر متفرق ہوتے ہیں۔

الشيمۃ و الشيمۃ۔ عارت۔ طبیعت۔ ج شيم

الشيم: ہر وہ زمین جو اب تک کھدی نہ ہو اور اپنی تختی پر پائی ہو۔

الشيام۔ نرم زمین۔ مٹی۔

الشيام۔ مٹی۔ چوہ۔ ج شيم۔


المشيم و المشوم و المشيم۔ تل والا۔
المشيمۃ: پتے کی جھلی جس میں پتے پیدائش کے وقت پڑتا ہوا ہوتا ہے۔ ج مشيم و مشائم۔

شاهه يشيقه شيفا۔ عیب لگانا۔
شيق: حرف "ش" لگنا۔

المشيين۔ عیوب۔
شاهه يشيقه شيفا۔ نظرد لگانا۔

الشيوہ۔ نظرد لگانے والا۔ کہا جاتا ہے "هو شيوہ من أشبه الناس" وہ بہت نظرد لگانے والا ہے۔

الشية (دیکھو وی) الشای۔ جائے۔



صَبَبَ (س) صَبَابًا: مِنَ الشَّرَابِ: شَرَابٌ
سے میر ہونا۔ بھر جانا۔ صَبَبَتْ وَأَصَابَ الزَّوَالِ:
سر میں جوں ہو نایا زیادہ جوں ہوتا۔

الصُّوَابَةُ: جوں کے انڈے۔ جِ صُؤَابٌ
صِبْتَانُ: الصَّبْتَانُ: چھوٹے چھوٹے موتی کے
ماندراولے۔

الصُّوَابَةُ: غلہ کا ڈیر۔
المِصْبَابُ: شراب سے بھرا ہوا۔

صَاصًا: الجَزْوُ: پلے کا آگے کھولنے کے
قرب ہونا۔ الزَّجْلُ: مرد کا بزدل ہونا
_____ مِنَ فَلَانٍ: ڈرنا۔ تَصَاصًا: مَنَةٌ:
خوف کرنا۔ تَلَعُ ہونا۔

الصَّبْنُصَا: رومی بھجوریں۔

صَبْنَةُ: الدِّهْنُ: سرخ کی ٹانگ کا تار۔

صَبِكُ (س) صَبَاكَ: پدروار پییدہ لگانا

_____ الدَّمُ: خون جمانا۔ بہ چکانا۔

صَاةٌ كَمَا مَضَاةٌ كَمَا: مَحَلٌّ كَرَا: مَحَلٌّ كَرَا:

الصَّبِكُ: مِنَ الرِّجَالِ: مضبوط آدمی۔

صَبْوَنٌ (ک) يَصْبُوْنَ صَابَةً: التَّبَعِيْرُ: اونٹ

کا آدمیوں پر دوڑنا اور مار ڈالنا۔ صَفْتٌ صَبِلٌ

وَصَبْوَلٌ۔

صَانٌ يَصْبِلُ صَبِيْلًا: الفَرَسُ: گھوڑے کا

بہننا۔

صَامٌ يَصَامُ صَامًا: الجَبِيْشُ عَلَى الْقَوْمِ:

الْمَلِكِيُّ رَهْمَانِي كَرَا:

صَبِيْبٌ يَصْبِمُ صَابًا: مَتَّ پانی پینا۔

الصَّالِيْمُ: بِيَاَسَا۔

صَبَبَ (س) صَبَابًا: مِنَ الشَّرَابِ: شَرَابٌ
سے میر ہونا۔ بھر جانا۔ صَبَبَتْ وَأَصَابَ الزَّوَالِ:
سر میں جوں ہو نایا زیادہ جوں ہوتا۔

الصُّوَابَةُ: جوں کے انڈے۔ جِ صُؤَابٌ
صِبْتَانُ: الصَّبْتَانُ: چھوٹے چھوٹے موتی کے
ماندراولے۔

الصُّوَابَةُ: غلہ کا ڈیر۔
المِصْبَابُ: شراب سے بھرا ہوا۔

صَاصًا: الجَزْوُ: پلے کا آگے کھولنے کے
قرب ہونا۔ الزَّجْلُ: مرد کا بزدل ہونا
_____ مِنَ فَلَانٍ: ڈرنا۔ تَصَاصًا: مَنَةٌ:
خوف کرنا۔ تَلَعُ ہونا۔

الصَّبْنُصَا: رومی بھجوریں۔

صَبْنَةُ: الدِّهْنُ: سرخ کی ٹانگ کا تار۔

صَبِكُ (س) صَبَاكَ: پدروار پییدہ لگانا

_____ الدَّمُ: خون جمانا۔ بہ چکانا۔

صَاةٌ كَمَا مَضَاةٌ كَمَا: مَحَلٌّ كَرَا: مَحَلٌّ كَرَا:

الصَّبِكُ: مِنَ الرِّجَالِ: مضبوط آدمی۔

صَبْوَنٌ (ک) يَصْبُوْنَ صَابَةً: التَّبَعِيْرُ: اونٹ

کا آدمیوں پر دوڑنا اور مار ڈالنا۔ صَفْتٌ صَبِلٌ

وَصَبْوَلٌ۔

صَانٌ يَصْبِلُ صَبِيْلًا: الفَرَسُ: گھوڑے کا

بہننا۔

صَامٌ يَصَامُ صَامًا: الجَبِيْشُ عَلَى الْقَوْمِ:

الْمَلِكِيُّ رَهْمَانِي كَرَا:

صَبِيْبٌ يَصْبِمُ صَابًا: مَتَّ پانی پینا۔

الصَّالِيْمُ: بِيَاَسَا۔

الصَّبَبُ: نَسِيْبٌ: جِ أَصْبَابٌ۔

الصَّبَابَةُ: برتن میں بچا ہوا پانی۔ جِ صَبَابَاتٌ۔

کما جاتا ہے "لَمْ أَذْرِكْ مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا صَبَابَةً"

میں نے زندگی سے صرف تھوڑا سا حاصل کیا۔

الصَّبَابَةُ: عَشَقٌ - سَوْشٌ عَشَقٌ۔

الصَّبِيْبُ: زَرُوْرَتُكَ - اَوْلَادٌ - عَمْرُوْهُ شَدِيدٌ - بَلِيْدٌ۔

خون۔ عتدوم کا نمونہ۔ ایک قسم کا سرخ رنگ۔ گراہی

ہوئی چیز۔ تلواری کی دھار۔ کما جاتا ہے "وَضَعْتُ

صَبِيْبَتِ السَّنْفِ لِيْ بَطْنِيْهِ" یعنی تلواری کی دھار

کو اس کے پیٹ پر رکھا۔

المِصْبُ: گرنے کی جگہ۔ جِ حَصَابٌ۔

المِصْبُ: حُرُوفٌ دَخَالَتْ كَالسَّجِيْهِ۔

المِصْبُوْبُ: گرایا ہوا۔ المِصْبُوْبُ عَلَى

السَّنِيِّ: کسی چیز پر برا بھلا کہنا۔

صَبَا (ف) صَبْوًا (ک) صَبَاً وَصَبْوَةً۔

مذہب تبدیل کرنا۔ صاحبین کا دین اختیار کرنا۔

صَفْتٌ صَابِيٌّ _____ عَلَيْهِمُ: اہماک پہنچ جانا

_____ الْعَدُوْ عَلَيْهِمُ: دشمن کی رہنمائی کرنا

_____ وَأَصْبَابًا إِصْبَاءً) _____ النَّابُ او

النَّبَاتُ: اونٹ لگانا۔ نباتات اَلْمَاوِصَابُ الْقَوْمِ:

قوم پر اہماک پہنچ جانا۔

الصَّابِقُونَ وَالصَّابِقَةُ: ایک قوم جو ستاروں

کی پرستش کرتی تھی اور یہ بھی کما جاتا ہے کہ لوح

عظیم کے دین کے جوڑے اور کہا گیا ہے کہ ان

کے علاوہ ہیں۔

الصَّبَاوَاتُ وَالصَّبَاوَاتُ: جمع صَبِيْبٌ مِمْرَانِي

کالفظ ہے جس کے معنی خوبصورتی اور شرافت

کے ہیں اور اسی سے ہے "زُبُّ الصَّبَاوَاتُ"

یعنی شرافت والا۔

صَبِيْحٌ (ف) صَبَاْحًا: الْقَوْمُ: صبح کے وقت

آنا _____ عن الحق: جن ظاہر کرنا۔
 صبح (س) صَبَحًا وَصَبْحَةً: چمکدار روشن
 ہونا _____ الشُّعْرُ: بال کا چمکدار ہونا _____
 الحديد: لوہے کا چمکدار ہونا۔
 صَبْحٌ (ک) صَبْحًا: الوَجْهَ: چہرے کا
 روشن و چمکدار ہونا _____ الغَلَامُ: لڑکے کا
 خوبصورت ہونا۔ مَفْتٌ صَبْحًا: صَبِيحٌ
 صَبِيحَةٌ: صبح کے وقت آنا۔ صبح کی شراب پلانا۔
 صَبْحُ الْقَوْمِ الْكَاثَةِ: قوم کو لے کر پلانا اور صبح کو
 پانی پر پھینکا _____ الرَّجُلُ: صبح کو سلام کرنا۔ کہا
 جاتا ہے "صَبَحَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ"
 أَصْبَحَ: صبح میں داخل ہونا۔ آدمی رات میں
 بیدار ہونا _____ المِصْبَاحُ: چراغ جلاتا۔
 الحق: جن ظاہر ہونا۔
 أَصْبَحُ بِهَذَا جُلُ: اے شخص جو کنار ہو۔
 عرب جب کسی سے بدقالی لیا کرتے تھے تو کہا
 کرتے تھے صَبَحَ اللَّهُ لَأَصْبَاحُكَ۔
 تَصَبَّحَ: صبح کے وقت سونا۔ ناشتہ کرنا۔ تَصَبَّحَ
 بِه: صبح کے وقت لانا۔
 تَصَابِيحٌ: بگلف خوبصورت بنا۔ کہا جاتا ہے
 "لَفَلَانٌ يَتَصَابِيحُ وَيَتَحَاسِنُ" فلاں بگلف
 خوبصورت و حسین بنتا ہے۔
 اصْطَبَحَ: چراغ روشن کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "الشَّمْعُ مَثَلُ اصْطَبَاحٍ بِه" موم ان چیزوں میں
 سے ہے جن سے روشنی کی جاتی ہے۔ الرَّجُلُ:
 صبح کی شراب پینا۔
 اصْبِيحًا اصْبِيحًا: الشُّعْرُ: بال کا مالک
 برسرٹی ہونا۔
 اسْتَصْبَحَ الرَّجُلُ: چراغ جلاتا۔ روشن کرنا۔
 الصُّبْحُ: دن کا ابتدائی حصہ۔ جِ اصْبَاحًا:
 الصُّبْحَةُ: دم۔ ناشتہ۔ سیاہ رنگ۔ مالک برسرٹی)
 _____ وَ الصُّبْحَةُ: صبح کی نیند۔
 الصَّبَاحُ وَ الصُّبْحَةُ: الأَصْبُوْحَةُ: دن کا
 ابتدائی حصہ۔ اور وہ شام کی ضد ہے۔ تم کہتے ہو
 "آتَيْتَهُ صَبَاحًا مَسَاءً" دونوں جزو کو ملنی کر کے
 اور "آتَيْتَهُ ذَا صَبَاحٍ" یعنی صبح کے وقت اور
 "عِمْ صَبَاحًا" یعنی شہساری زندگی صبح کے وقت
 اچھی ہو۔ "يَوْمُ الصَّبَاحِ": بوٹ کادن۔

الصَّبَاحُ: قدیل کا شعلہ۔ غَلَامٌ صَبَاحٌ:
 خوبصورت لڑکا۔ مَوْنُثٌ صَبَاحَةٌ: صَبَاحٌ:
 الصُّبْحَانِيَّةُ: چوڑائی۔
 الصُّبْحَانِيَّةُ: بہت سرخ خون۔
 الأَصْبَحُ: شیر۔ بال جس میں خلقت سفیدی سرخی
 مائل ہو۔ سفیدی سرخی مائل بال والا۔ مَوْنُثٌ
 صَبْحَانَةٌ: صبح صبح۔
 الصُّبْحُ: جو چیز صبح کے وقت کھائی یا پی جائے۔
 دودھ جو صبح کو دودھا جائے۔ کہا جاتا ہے "آتَيْتَهُ
 ذَا صَبْحٍ" یعنی صبح کے وقت میں اس کے پاس
 آیا۔
 الصُّبْحُ: خوبصورت۔ جِ صَبَاحٌ: مَوْنُثٌ
 صَبْحَانَةٌ: صبح صبح۔
 الصُّبْحَانُ: خوبصورت۔ مَوْنُثٌ صَبْحَانِيَّةٌ: جِ
 صَبْحَانِيَّةٌ: وہ شخص جو صبح کی شراب پئے۔
 رَجُلٌ صَبْحَانٌ: جلدی صبح کی شراب پینے والا۔
 الصُّبْحَانِيَّةُ: خوبصورتی۔
 الثُّصْبُحُ: صبح کرنا۔ صبح کرنے کا وقت۔ صبح
 کرنے کا مقام۔
 المِصْبَاحُ: بڑا پیالہ۔ چراغ۔
 المِصْبَاحُ: چراغ جو چوڑے تیزہ۔ بڑا پیالہ۔ جس
 میں صبح کی شراب پی جائے۔ جِ مِصْبَاحِيَّةٌ:
 صَبْرٌ (ض) صَبْرًا: عَلَى الأَمْرِ: دلیری کرنا۔
 بہادری کرنا۔ صفت صَابِرٌ صَبْرٌ صَبْرٌ _____
 عَنِ الشَّيْءِ: رک جانا _____ الذَّاهِبَةُ: جالور کو بغیر
 چارہ کے باندھ رکھنا _____: مجبور کرنا اور لازم
 کر دینا _____ عَنِ الأَمْرِ: روک دینا۔ بند کر دینا
 (کام سے) اسی سے ہے۔ صَبْرٌ نَفْسِي عَنِ كَذَا
 یعنی میں نے اپنے نفس کو فلاں چیز سے روک دیا۔
 وَ صَبْرٌ عَلَيَّ مَا أَكْرَهُ وَ صَبْرٌ عَمَّا أَحِبُّ۔
 جس چیز کو میں کمروہ سمجھتا ہوں اس سے اپنے آپ
 کو روک دیا اور جس چیز کو محبوب سمجھتا ہوں اس
 سے صبر کیا۔ کہا جاتا ہے "قَتِلْ صَبْرًا" وہ قتل کیلئے
 بند کیا گیا۔ وَ حُلْفٌ صَبْرًا: تم کھانے کے لیے بند
 کیا گیا۔
 صَبْرٌ (ن) صَبْرًا وَ صَبْرًا: بِه: ضامن ہونا۔
 _____: ضامن دینا۔ کہا جاتا ہے اصْبُرْ لِنِ
 یعنی مجھ کو ضامن دو۔

صَبْرَةٌ: صبر دلانا۔ صبر کرنے کو کہنا _____
 المَيْتَةُ: مردہ کے پیٹ میں ایسا ڈالنا تاکہ
 بدبودار نہ ہو۔ صَبْرُ الكَأْسِ: پیالہ کو لبالب
 بھرنا۔
 اصْبُرْ: اللَّيْنُ: کھٹے پن کا تلخی تک پہنچ جانا۔
 ایلوے کی مانند کڑوا ہونا۔ صبر دلانا _____
 الرَّجُلُ: ام صبور یعنی معیبت میں پڑنا۔ شیشی
 کو کاک لگانا _____ الفاضِي فَلَانًا: قاضی کا
 نھم سے بدلہ دلانا۔
 صَابِرَةٌ صَبْرًا وَ مِصَابِرَةٌ: صبر کرنے میں
 غالب رہنا۔
 تَصَبَّرَ: بگلف سے صبر ظاہر کرنا _____
 عَلَيْهِ: صبر کرنا۔
 اصْطَبَّرَ وَ اصْبَرَّ: عَلَيْهِ: صبر کرنا _____
 هُنَّ: بدلہ لینا۔
 اصْبَارًا وَ اصْبِرًا: عَلَيْهِ: صبر کرنا۔
 اسْتَصْبَرُ الشَّيْءُ: مومنا ہونا۔ سخت ہونا۔ بہت
 ہونا۔
 الصُّبْرُ: بہادری۔ معیبت کی شکایت نہ کرنا۔
 شَهْرُ الصُّبْرِ: رمضان کا مہینہ۔ يَمِينُ الصُّبْرِ:
 وہ قسم جس کو کھانے کے لیے قید کر دیا جائے۔
 الصُّبْرُ وَ الصُّبْرُ: کنارہ۔ سفید بادل۔ جِ
 اصْبَارًا: کہا جاتا ہے "أَخَذَ الشَّيْءُ بِاصْبَارِهِ"
 یعنی پورا لے لیا۔ و "مَلَأَ الكَأْسَ إِلَى
 اصْبَارِهَا" پیالے کو کنارے تک بھر دیا۔
 الصُّبْرُ وَ الصُّبْرُ: نکلنے والی زمین جو سخت نہ ہو۔
 الصُّبْرُ: برف۔ جِ اصْبَارًا:
 الصُّبْرُ: ایوان۔ صَبْرٌ وَ صَبْرٌ: واحد صَبْرَةٌ: اس لفظ
 میں ب کو مت کم ساکن کیا جاتا ہے۔
 الصُّبْرَةُ: غلہ کا ڈیرہ۔ سخت چھروں کا ڈیرہ۔ جِ
 صَبَارًا: کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ صَبْرَةً" یعنی بغیر
 وزن اور پیمانے کے کل لے لیا۔
 الصَّابِرُ: فا۔ ابُو صَابِرٍ: نمک۔
 الصَّابِرَةُ: بوجھ جو سوار یا کشتی جہاز وغیرہ
 میں رکھا جائے تاکہ اوہر اوہر نہ جھٹلے پائے۔
 الصُّبْرَةُ وَ الصَّبْرَةُ: سخت سروی۔ صَبْرَةٌ
 الشَّيْءُ: سردی کا درمیانی زمانہ۔
 الصَّبَارُ: کاک۔ ایک کھٹے درخت کا پھل۔

إِنصَبْنَ وَأَصْطَبْنَ عَنَّةً رَكَ جَانًا بِمِجْرَانًا -
الضَّابِنُ - صابن - کلمہ فارسی الاصل ہے۔
عربی میں (خاسول) کہتے ہیں۔ ایک کھلے کو
(صابونہ) کہتے ہیں اور اس کے بیچے والے اور
بناسنے والے کو صَبَانٌ وَصَابُونِيٌّ کہتے ہیں۔
الضَّابُونِيَّةُ - ایک قسم کا پودہ جس سے دھویا
جاتا ہے۔

الْمُضْبِنَةُ - صابون کا کارخانہ۔
صَبَا يَصْبُو صَبْوَةً وَصَبْوَةً وَصَبْوًا - إِلَيْهِ
وَلَهُ: مشتاق ہونا۔

صَبَا يَصْبُو صَبْوًا وَصَبْوًا وَصَبَاةً ا
وَصَبَاةً ا - بیچنے کی طرف مائل ہونا۔ بچوں کی سی۔
خصلت القیام کرنا۔ صفت صاب مونت
صَابِيَّةٌ
صَبَّتْ صَبَاءً وَصَبْوًا - الرِّبِيْعُ: پُرُوأَى ہوا کا
چلنا۔

صَبِيٌّ وَأَصْبِيٌّ - الْقَوْمُ: پُرُوأَى ہوا کا لگنا۔
أَصْبَى - الزَّجْلُ: بیچنے والا ہونا۔ أَصْبَى
الشَّيْءُ فَلَانًا: شوق میں ڈال دینا۔ کہا جاتا ہے
أَصْبَنَةُ الْمَكَارِمِ: اس کو مکارم نے شوق میں
ڈال دیا۔

صَبِيٌّ يَصْبِي صَبَاةً وَاسْتَصْبَى: بچوں جیسا
کام کرنا۔ صَبِيٌّ إِلَيْهِ: مشتاق ہونا۔ اسْتَصْبَاهُ:
کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسا بچوں سے کیا
جاتا ہے۔

صَابِي مَصَابَاةً - تیزہ مارنا۔ تیزے کو مارنے
کے لیے جھکانا۔ السَّيْفُ: تلوار کو میان
میں الٹی طرف سے کرنا۔ الْكَلَامُ: بے
قائدہ بولنا۔ يَتَّ الشَّيْعُ: اچھی طرح نہ
پڑھنا۔

تَصَبَّى تَصَبِيًّا وَتَصَابِي تَصَابِيًّا - کھیل کود
کی طرف مائل ہونا۔ الْمَرْأَةُ: عورت کو
قریب دینا اور مفتون بنانا۔ تَصَابَاةُ الشَّيْءِ: شوق
میں ڈالنا۔

الضَّابِنَا: پُرُوأَى ہوا (مونت ہے) اس کے مقابل
کی ہوا کا نام دَبُوْرٌ ہے۔ تشبیہ اس کا صَبَانٌ اور
صَبِيَانٌ اور جمع صَبَوَاتٍ اور أَصْبَاءُ -
الصَّبَا: شوق۔

الْعَرْوَمُ: انگور کی ایک قسم جو لمبی ہوتی ہے۔
الْمُضْبَعَةُ: غرور، تکبر، گھمنڈ۔
الْمُضْبَعُ: گھمنڈی، تکبر۔

صَبَعٌ (ن ض ف) صَبَعًا وَصَبْعًا - الْقَوْبُ:
کپڑے کو رنگنا۔ يَذُو فِي الْمَاءِ: پانی میں
ہاتھ ڈبوتا۔ يَذُو بِالْعَمَلِ: کام میں مشغول
ہونا۔ فَلَانًا بِالْتَعْيِمِ: نعمتوں سے چھاپ دینا۔ صَبَعَهُ
بِالْمَاءِ فَاصْطَبَعَ: پانی سے پتھر دینا۔ کہا جاتا ہے
"صَبَعُونِي فَنِي عَيْنِكَ" یعنی انہوں نے میری
برائی تمہارے سامنے بیان کر کے میری کیفیت
بدل دی۔

صَبَعٌ (ن ض ف) صَبَعًا - صَبَعٌ غَا: صَبَعٌ النَّاقَةِ: اونٹنی کے
تھن کا بھر جانا اور خوش رنگ ہونا۔
صَبَعٌ: گمراہ گننا۔ وَأَصْبَعٌ: گمراہ کا پکے
لگنا۔ أَصْبَعٌ عَلَيْهِ الْعَمَّةُ: کال کرنا۔

تَصَبَّعَ لِي دَيْنِي: دین میں کال دینا۔
إِصْطَبَعَ: سان لگانا۔ کہا جاتا ہے "إِصْطَبَعَ
بِالْخَلِّ أَوْ فِي الْخَلِّ" اس نے سر کو سان بنایا۔
بَكْدًا: رنگین ہونا۔

الصَّبَعُ وَالصَّبْعُ - ج: أَصْبَاعٌ وَالصَّبَاغُ - ج:
أَصْبَغُو الصَّبْعَةَ: رنگ۔
الصَّبَعُ: سان۔

الصَّبِغَةُ: نوع - ملت - دین - پتھر کا رنگ۔
الصَّبِغَةُ: ادھ پکری گھجور۔
الصَّبَاغَةُ: رنگریزی کا پیشہ۔
الصَّبَاغُ: رنگنے والا - لقب ہے پوختا۔

الصَّبِغُ: رنگا ہوا۔ کہا جاتا ہے "قَوْبٌ صَبِغٌ"
ثَبَاتٌ صَبِغٌ"۔
الصَّبَاغُ: رنگریزی - جھوٹا۔

الأصْبَعُ: بڑا سیلاب۔ مِنَ الظَّيْرِ
وَالشَّاءِ: پندہ یا بکری جس کی دم سفید ہو۔
مِنَ الْخَبْلِ: گھوڑا جس کی پیشانی یا کان کے
اطراف سفید ہوں۔ مَوْنَتٌ صَبْغَاءُ - ج: صَبِغٌ -
المُضْبِغَةُ: رنگنے کی جگہ۔

صَبَنَ (ض) صَبْنًا - الشَّيْءُ عَنَّةً: روک دینا۔
دوسری چیز کی طرف پھیر دینا۔ الْمَقَامُ
الْكُفَيْبِيُّ: جواری کا پانسہ کو چھینکنے کے لیے
درست کرنا۔

الضَّبَارَةُ: حنات - سردی کی شدت۔
(وَالضَّبَاةُ) جتنے پتھر۔
الضَّبَارُ وَالضَّبَارُ - الملى - ناک پھنی - واحد
ضَبَاةٌ ضَبَاةٌ -

الضَّبَاةُ: بجز سخت زمین۔
الضَّبُوْرُ - ج: ضَبُوْرٌ - بردبار۔ يَدُ اللّٰهِ تَعَالَى كَ
اسمے حسی میں سے ہے (وَالضَّبَارُ)
بست زیادہ مبر کرنے والا۔
الضَّبُوْرَةُ مِنَ الرِّجَالِ: قتل کے لیے قید کیا
ہوا۔

الضَّبِيْرُ - مبر کرنے والا۔ ضامن - قوم کا
چودھری - ج: ضَبُوْرَاءُ -

الصَّبِيْرُ وَالصَّبِيْرَةُ: چوڑی روٹی۔
أُمُّ صَبَّارٍ وَأُمُّ صَبُوْرَةٍ - صبيبت۔
الضَّبُوْرُ: قتل کے لیے قید کیا ہوا۔ ذمیر۔
مَوْنَتٌ مُضْبُوْرَةٌ -

صَبِصَبٌ: حفرق کرنا۔
تَصَبَّبَ: متفرق ہونا۔ تَصَبَّبَ اللَّيْلُ:
رات کا اکثر حصہ گزر جانا۔ الْحُوْرُ: گری
زیادہ ہونا۔ عَلَيْنَا فَلَانٌ: بست جرات
کرنا۔

الضَّبْنَابُ وَالضَّبْنَبُ وَالضَّبَابُ:
سخت مضبوط۔

صَبَعٌ (ف) صَبَعًا - بِهِ وَعَلَيْهِ: انگلی سے
اشارہ کرنا۔ فَلَانًا عَلَيْهِ: اشارہ سے
رہنمائی کرنا۔

صَبَعَةٌ (ف) صَبْعًا وَمُضْبَعَةٌ - تکبیر بنانا۔ اسی
سے ہے "مَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانُ صَبْعَةً
الشَّيْطَانُ" جس کو سلطان والی بنا دیتا ہے۔
شیطان اس کو تکبیر بناتا ہے۔ انگلی پر مارنا۔ صَبَعٌ
الشَّيْءُ: کسی چیز میں انگلی داخل کرنا۔ يَنْبُ
القَوْمُ: کسی دوسرے کو قوم کا پتہ بتا دینا۔ فَيَنْ
الطَّعَامِ: کمانے میں انگلی ڈالنا۔

الأَصْبَعُ الإِصْبَعُ الأَصْبَعُ الأَصْبَعُ
الإِصْبَعُ الأَصْبَعُ الأَصْبَعُ الأَصْبَعُ الأَصْبَعُ
انگلی۔ مَوْنَتٌ - سماں ہے کسی بڈ کر بھی آتا ہے۔ ج:
أَصْبَاعٌ أَصْبَاعُ الْفَتَيَاتِ: ایک پھول کی قسم۔
فَرْنَجْمَشِكُ أَصْبَاعِ الْعَدَاوِيِّ أَوْ أَصْبَاعِ

ہوتا _____ الحناء: پانی کا لکڑی والا ہونا
فُلَانًا: محفوظ رکھنا _____ ه عَن كَذَا: روک
دنا _____ الشئ: ساتھ کرنا۔

تَضَعَبَ مِنهُ: شرم کرنا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ
فَاتَبَضَعَبَ مِن شَيْءٍ" یعنی فلاں نہ تو پر ہیز کرتا
ہے اور نہ شرم کرتا ہے۔

اضْطَحَبَ فُلَانًا: مخالفت کرنا۔

اضْطَحَبُوْا: ایک دوسرے کا ساتھی ہونا۔

اِسْتَضَحَبَهُ: ساتھی بنا۔ ساتھی بننے کے لیے
کہنا۔ ساتھی بنا۔ اِسْتَضَحَبَهُ الشئ: کسی چیز کو
ساتھ رکھنے کے لیے کہنا _____ الشئ: کسی چیز
کو ساتھ کرنا۔

الصَّاحِب: ساتھی۔ ایک ساتھ زندگی بسر
کرنے والا۔ مالک۔ وزیر۔ گورنر۔ کہا جاتا ہے
"صَاحِبُ حُمَاةٍ" یعنی حاکم حماة اور "ہا
صَاح" یا صاحب کی ترسیم ہے۔ ج صُحْب
وَأَصْحَابٌ وَصُحْبَةٌ وَصَحَابٌ وَصُحْبَانٌ
وَصِحَابَةٌ وَصُحَابَةٌ اور أَصْحَابٌ کی جمع
أَصْحَابٌ۔

الصَّاحِبَةُ: صاحب کا مؤنث۔ بیوی۔ ج
صَاحِبَاتٌ وَصَوَاحِبٌ۔

الصُّحَابَةُ: وہ حضرات (بُحْبُحٌ) جو سرود
کائنات پر اللہ کے دیدار سے شرف ہوئے ہوں
اور ایمان لائے اور ایمان ہی پر انتقال ہوا ہو۔

الصُّحَابِيُّ: جو صحابہ کرام پر اللہ کی طرف
منسوب ہو۔ نیز صحابہ کرام پر اللہ میں سے فرد
واحد۔ (بُحْبُحٌ)

المُصَاحِب: ساتھ رہنے والا۔ دشواری سے
فرمانبردار ہونے والا۔

المُضْحَب: پاگل آدمی جو خود بخود باتیں
کرتے۔ غُوْدٌ مُضْحَبٌ: وہ لکڑی جس سے چمکا
طیگر نہ کیا گیا ہو۔ اَدِينُهُ مُضْحَبٌ: وہ چڑا جس
سے بال دور نہ کیے گئے ہوں۔

المُضْحَبُ وَالمُضْحَبَاتُ: فرمانبردار۔
ذلیل۔ اَدِينٌ مُضْحَبٌ: جس چڑے پر بال یا
اون ہو۔ غُوْدٌ مُضْحَبٌ: وہ لکڑی جو چھیلی نہ گئی
ہو۔

المُضْحَبُوبُ: حق۔ ادیم مصحوب: وہ

صَحَّحَ (ن) صَحَّحًا: لوہے پر لوہا مارنا۔ جس سے
آواز نکلتی۔

الصُّحُجُجُ وَالصُّحُجِجُ: لوہے پر لوہا کرنے کی
آواز۔ جھنکار۔

صَحَّحَ (ض) صَحَّحًا وَصَحَّحَةً وَصَحَّحَا:
تندرست ہونا۔ ہر عیب سے پاک صاف ہونا

_____ الصَّحْبُ: مطابق واقع ثابت ہونا۔ صفت
صَحِيحٌ وَصَحِيحٌ: کہا جاتا ہے "صَحَّحَ لِي عَلَيَّ
فُلَانٌ كَذَا" یعنی میرے لیے فلاں پر اتنا ثابت ہوا۔

صَحَّحَ العَرِيضُ: تندرست کرنا۔ چنگا کر
دنا _____ الكِتَابُ: کتاب کی غلطی درست کر
دنا۔

أَصَحَّحَهُ إِصْحَاحًا: تندرست کرنا یا تندرست
پانا۔ مرض کا زائل کرنا۔ أَصَحَّ التَّوَجُّلُ: آدمی کا
تندرست ہونا۔ بچے یا مویشی والا ہونا۔

تَضَعَّعَ بِكَذَا: فلاں چیز سے علاج کرنا۔

اِسْتَضَعَّعَ مِن مَرَضٍ: مرض سے تندرست
ہونا _____ الكَلَامُ: صحیح پانا۔

الصَّحَّحَةُ: تندرستی۔
الصَّحَاح: ہم۔ مِنَ الطَّرِيقِ: راستہ کا دشار
حصہ۔

الصُّحْبُجُجُ: تندرست۔ عیب وغیرہ سے بری۔
بمرد کے قاتل۔ ج أَصْحَاءٌ وَجِجَاحٌ
وَأَصْحَابُ صَخَالِجٍ۔

المُضْحَبُ: صحت کی جگہ۔

المُضْحَبَةُ وَالمُضْحَبَةُ: صحت دینے والی۔
صحت محفوظ رکھنے والی۔ کہا جاتا ہے "الصُّمُومُ

مُضْحَبَةٌ" یعنی روزہ صحت دینے والا ہے یا صحت کا
حافظ ہے و "أَزْهَضَ مُضْحَبَةً" ایسی زمین جو دیالی
امراض سے پاک ہو یا جس میں بیماریاں وغیرہ زیادہ
نہ ہوتی ہوں۔

صَحْبٌ (س) صُحْبَةٌ وَصَحَابَةٌ وَصَحَابَةٌ
وَصَحَابَةٌ مُضْحَبَةٌ: ساتھی ہونا۔ دوستی کرنا۔
ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔

صَحْبٌ (ف) صَحْبًا: المَذْبُوْحُ: کھال
آٹارنا۔

أَصْحَبَ التَّوَجُّلُ: ساتھی والا ہونا۔ بیٹے کا بالغ
ہو کر اپنے ہی مانند ہونا۔ دشواری کے بعد تاجدار

الصَّبَاءُ وَالصَّبَاءُ: بچپنا۔ کہا جاتا ہے زَأَيَّةٌ
فِي صِبَاہِ او فِی صِبَاہِہ۔ یعنی اس کو بچپنے میں
دیکھا تھا۔

الصَّبُوَّةُ: بچپن۔ جوانی کی ناولی۔

الصَّبِيُّ: بچہ جو جوان سے کم عمر ہو۔ آگہ کی
پتلی۔ ج صَبِيَانٌ وَصَبِيَانٌ وَصَبِيَانٌ وَصَبِيَانٌ
وَأَصْبِيَةٌ وَصَبِيَةٌ وَصَبِيَةٌ وَصَبِيَةٌ
وَأَصْبٌ مَوْلَاةٌ صَبِيَّةٌ۔ ج صَبِيَانَا: الصَّبِيَّةُ:
لڑکی۔ الصَّبِيُّ: لکڑار کی دھار۔ پاؤں کا بچہ۔ کہا
جاتا ہے "يَدُ وَجَعٌ فِی صَبِيٍّ قَدِيمٍ" اس کے
پہنچے میں درد ہے۔

الصَّبِيَانُ: ڈاڑھی کے کنارے جو ٹھوڑی کے
قریب ہیں۔

الصَّبِيَّةُ الْأَصْبِيَّةُ: صبی کی جمع صَبِيَّةٌ اور
أَصْبِيَّةٌ کی تفسیر ہے۔

الصَّبِيَّةُ: پروالی اور شمالی ہوا کے درمیان کی
ہوا۔ المُضَابِيَّةُ: معیبت۔

صَفَّةٌ (ن) صَفًّا: زور سے دھکارنا۔ ہاتھ سے
مارنا _____ بِكَلَامٍ أَوْ بِذَاهِيَةٍ: حسرت لگانا۔
معیبت ڈالنا۔

صَاهَةٌ مُضَابَةٌ صَهَاتًا: جھگڑا کرنا۔

نَضَاتٌ القَوْمُ: آپس میں جھگڑا کرنا۔ آپس
میں جگ کرنا۔

الصَّنْتُ وَالصَّنْتُ وَالصَّنَّةُ: جماعت الصنْتُ
والصَّنَّةُ: ضد۔ ہٹ۔

الصَّنْتُ: درپے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ بَصَنَةٌ" وہ
اس کے درپے ہے۔

الصَّنِيْنُ: جماعت۔ آواز۔ شور۔

البَصْنِيْنُ: اپنے کالوں میں مستند۔

صَنَنَةً (ف) صَنَنًا: پچھاڑنا _____ لَهْ: کسی
کا قدر کرنا۔

تَضَعَّعَ: کسی کام میں تردد کرنا۔

الصُّعُجُ: مضبوط جوان۔ گورنر۔

صَعَّمَ الشئُ: کھل کرنا۔

تَضَعَّمَ: تیز دوڑنا۔

الصَّمْمُ وَالصَّمْمُ: سخت مضبوط۔ کامل مضبوط۔

الصَّمْمَةُ وَالصَّمِيْمَةُ: سخت چمچ۔

المُصْتَمُّ: گل یا وادی جو غیر نازندہ ہو۔

پہلا جس پر سے بال نہ آتارے گئے ہوں۔ غُوذٌ
مَضْحُوْبٌ وہ گلائی جس پر سے پھال دور نہ کی
گئی ہو۔ کما جاتا ہے "إِذْ هَبَّ مَضْحُوْبًا
مُضَاخِيًا" یعنی محفوظ خیریت و عاقبت کے ساتھ
جاؤ۔
صَحْوٌ (ف) صَحْوًا- اللَّيْنُ: دودھ کو ابلانا۔
صَحْرَةٌ الشَّمْسِ: دھوپ کا دماغ کو تکلیف
پہنچانا۔
صَحْوٌ (ف) صَحِيْرٌ وَ صَحَاؤًا- الْجَمَازُ:
گرمے کا زور سے رینکنا۔
صَحْوٌ (س) صَحْوًا- سرفی مائل ٹیلا ہونا۔
صفت اصغر مؤنث صَحْوَاءُ ج صَحْوٌ اور
رنگ کا نام صَحْوَةٌ۔
أَصْحَرُ: جنگل کی طرف جانا _____
الْمَسْكَاةُ: جنگل کی مانند وسیع ہونا _____ الْأَمْرُ
و بِالْأَمْرِ: ظاہر کرنا۔ کما جاتا ہے "لَا تُصَحِّرُهُ
أَمْرُكَ" یعنی اس کے سامنے اپنے امر کو ظاہر نہ
کرو۔ اور "أَصْحَرُ هَالِي قَلْبِيكَ" یعنی اپنے مانی
الضیر کو ظاہر کرو _____ الرَّجُلُ: کانٹا ہونا۔
إِصْحَارًا إِصْحِيْرًا- سرفی مائل ٹیلا
رنگ والا ہونا۔
الصَّحْوُ- سرفی سفید رنگ۔
الصَّحْوَاءُ: بیابان جس میں نباتات نہ ہو۔ ج
صَحَاوِيٌّ صَحَاوِيٌّ وَ صَحَاوِيٌّ وَ
صَحَاوَاتٌ۔
الصَّحِيْرَةُ: دودھ جو ابلایا جائے اور اس میں
گھی اور آٹلا دیا جائے۔
المضاحج: وہ شخص جو اپنے مقابل سے
بیابان میں جنگ کرے اور فریب نہ دے۔
المضحج: شیر۔
صَحْصَحَ- الْأَمْرُ: روشن ہونا۔ ظاہر ہونا۔
الصَّحْصَحُ وَ الصَّحْصَاحُ
و الصَّحْصَحَانُ: ہموار زمین جو نباتات وغیرہ
سے خالی ہو۔ ج صحاصيح- الثَّوْهَاتُ
الصَّحَاوِيْحُ وَ الثَّوْهَاتُ الصَّحَاوِيْحُ:
تغویات۔ خرافات۔ اضافات کے ساتھ ہوتے۔
الصَّحْصَحُ وَ الصَّحْصُوحُ: مِنَ الرِّجَالِ:
مرد ہر ایک میں۔

المُضْخِصُ: خالص نخت والا۔ باطل کوش۔
صَحْفٌ- الْكَلِمَةُ: پڑھنے میں غلطی کرنا۔
أَصْحَفٌ- الْكِتَابُ: کتاب میں صحیفوں کو جمع
کرنا۔
تَصَحَّفٌ- الْقَارِئُ: پڑھنے میں غلطی کرنا۔ کما
جاتا ہے "تَصَحَّفَتْ عَلَيْهِ الصَّحِيْفَةُ" یعنی
صحیفہ میں کلمہ اس پر متغیر ہو گیا۔
الصَّحْفَةُ: بڑا چوڑا پیالہ جس سے پانچ آدمی
آسودہ ہو جائیں۔ ج صحاف- الصحف:
چھوٹے چھوٹے چشمے۔
الصَّحَافَةُ- اِيْثِيْرِي- عَالَمُ الصَّحَاوَةِ:
عمرین اخبار۔
الصَّحِيْفَةُ: لکھا ہوا کاغذ۔ ورق۔ صَحِيْفَةٌ
الْوَجُوْهُ: چہرے کی کمال۔ کما جاتا ہے صُنَّ
صَحِيْفَةٌ وَ جِهْلٌ: اپنے چہرے کی کمال کو پہچانا۔
ج صحائف و صحف۔
الصَّحُوْفَةُ: چھوٹا پیالہ جس سے ایک آدمی
آسودہ ہو۔
الصَّحِيْفُ- رُوْطَةُ زَيْمِن-
الصحاف: پڑھنے میں غلطی کرنے والا۔ کتب
فروش۔
الصَّحْفِي: بھیرا استاد کے کتب بینی سے علم
حاصل کرنے والا۔ () وَ الْمُضْخِصُ: پڑھنے
میں غلطی کرنے والا۔
المُضْخِصُ وَ الْمُضْخِصُ وَ الْمُضْخِصُ-
بجلد کتاب۔ مَصَاحِفُ- جمع۔
المُضْخِصُ: تغیر کیا ہوا۔
صَحِيْلٌ (س) صَحْلًا صَوْتُهُ: بڑی ہوئی آواز
والا اور بھاری آواز والا ہونا۔ صفت صَحِيْلٌ
وَ أَصْحَلُ۔
إِصْطَحَمَ- الرَّجُلُ: سیدھا کھڑا ہونا۔
إِصْحَامٌ إِصْحِيْمًا- النَّبَاتُ: پودہ کا بست
سر سبز ہونا۔ بہری کا زردی سے ملنا۔ صفت
أَصْحَمٌ مؤنث صَحْمَاءُ- رِنِكٌ- ضَخْمَةٌ _____
الْأَرْضُ: زمین کے نباتات کا متغیر ہونا _____
الرِّزْقُ: سردی لگ جانا اور خشک ہونا شروع ہونا۔
صَحْنَةٌ (ف) صَحْنًا- مارنا۔ کما جاتا ہے
"صَحْنَةٌ عَشْرِيْنٌ سَوَاطًا" اس نے اس کو بیس

الصدی: رنگ لگ جانا۔ صفت صدی مؤنث
 صدیة الشئ: رنگ کے مشابہ
 ہونا۔ صفت اصدأ مؤنث صدأء
 الرجل: سیدھا کھڑا ہونا اور دیکھنا۔
 صدأ (ف) صدأ و صدأ تصدئة الشئ:
 رنگ دور کرنا۔ المیزاة: آئینہ کو صاف کرنا۔
 اصدأه: مورچہ والا جیسا بنانا۔
 تصدأ له: دور پے ہونا۔
 الصدأ: رنگ۔ مورچہ۔ رجل صدأ: نازک
 بدن مرد۔
 الصدی: جس پر مورچہ لگ گیا ہو۔ کہا جاتا ہے
 ”رَجَعُ فَلَانٌ صَائِرًا صِدْنًا“ فلاں شخص لوٹا
 اس حال میں کہ اس پر لذت کا وہ لگ چکا تھا۔
 الصدأة: مورچہ کا رنگ۔
 صدح (ف) صدحا و صدأخا: الرجل او
 الطائر: سرلی آواز بلند کرنا۔ صفت صدح و
 صدأخ و صدح و صدأخ و صدوح و
 صدیح و صدیح و صدیح و صدیح و
 صدیح و صدیح و صدیح و صدیح و
 الصدح: علم۔ خالی مکان۔ چھوٹا پتھر یا ٹیلہ۔
 شئ صدح: سیاہ چیز۔ صدحان:
 الصدحة و الصدحة و الصدحة: مرہ جس
 کو بطور تعویذ استعمال کیا جاتا ہے۔
 صدز (ان ض) صدزاً و مصدزاً: عن
 المكان و عن الماء: واپس ہونا۔ الی
 المكان: متوجہ ہونا۔ الرجل عن کذا:
 واپس کر دینا۔ صدزاً: الأمز: پیدا ہونا۔
 حاصل ہونا۔ واقع ہونا۔ منہ: ظاہر ہونا
 عنہ: پیدا ہونا۔ تیز لگانا۔
 صدزہ صدزاً: سینہ پر مارنا۔
 صدیز: سینہ میں درد ہونا۔ صفت مصدزؤن:
 صدزؤہ: واپس کرنا۔ آگے بڑھانا۔ صدر مجلس
 میں بٹھانا۔ صدز الكتاب بكذا: کتاب پر کسی
 چیز سے شروع کرنا۔ الفروض: گھوڑے کا
 آگے بڑھنا۔
 اصدزه: عن کذا: واپس کرنا۔ اصدز
 الأمز: ظاہر کرنا۔ الرجل: لے جانا۔ کہا جاتا
 ہے ”فَلَانٌ يُؤَدُّ وَلَا يُصْدِرُ“ یعنی فلاں کام کو
 شروع کرتا ہے اور ختم نہیں کرتا۔

دو بے حیا ہے۔
 الصاخو: لوہے پر لوہے کی جھنکار۔
 الصاخوة: پینے کے لیے مٹی کا پیالہ۔
 صخف (ف) صخفاً: الاضض: زمین کھودنا۔
 المصخفة: زمین کھودنے کا آلہ۔ کدال۔
 پھاڑا۔
 صخمة (ن) صخماً: الشمس: آفتاب کا
 مجلس دینا۔
 اصطحم: الرجل: سیدھا کھڑا ہونا۔
 صخی یضحی صخاً: القوب: کپڑے کا میلا
 ہونا۔ صفت صخ۔
 الصخاة: میل پھیل۔ ایک قسم کی بڑی۔
 صدہ (ن) صدأ عن کذا: روک دینا۔ مع
 کرنا۔ کہا جاتا ہے ”صد السبیل“ یعنی راستہ کے
 درے گھائی وغیرہ کی روک داغ ہو گئی۔
 صد (ان ض) صدأ و صدؤذا: عنه: اعراض
 کرنا۔ صفت صاد جمع صداد: مؤنث صادة جمع
 صواد و صداد۔
 صد (ان ض) صدیندا: من الشئ: چیخ پڑنا۔
 چلانا۔
 صادة: مدافعت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”أخذ تصادة“
 و تصادة“ یعنی وہ مدافعت کرنے لگا۔
 صدذ: ملی بجانا۔ الجرح: پیپ دینا۔
 اصدذہ: عن کذا: منع کرنا۔ باز رکھنا۔ الجرح:
 پیپ دینا یا بہ پڑنا۔
 تصدذ له: دور پے ہونا۔
 اصطلذت: المیزاة: عورت کا پردہ کرنا۔
 الضد: من۔ الضد: بلند بادل۔ وادی کا
 کنارہ۔ ج اصداد و صدؤذ۔
 الصدذ: دور پے۔ قصد۔ میلان۔ کنارہ۔
 الصداد: پردہ۔ ج اصدذہ۔
 الصدؤذ: روکنے والا (مفعول بمعنی فاعل)
 چھوٹی کرتی۔
 الصدیند: مہ۔ پیپ خون سے ملی ہوئی۔ صدیند
 الفضة: کھلی ہوئی چاندی۔
 الصداد: سانپ۔ پھیل۔ پانی پر جانے کا راستہ۔
 ج صدائد۔
 صدی (س) صدأ و صدؤ (ک) صداءة:

الصاخة: سخت آواز جو بہرا کر دے۔ مصیبت۔
 قیمت۔
 صخب (س) صخباً: شور مچانا۔
 صاخبة مصاخبة: ایک دوسرے کا شور
 مچانا۔
 تصاحب: القوم: یا ہم شور مچانا اور رہیٹ
 کرنا۔
 اصطخب: الطیر او الضفدع: پرند یا
 میزدک کی آواز کا ٹھنڈا ہونا۔
 الصخب: مہ۔ شور۔
 الصاحب و الصخب و الصخب و
 الصخب و الصخبان: شور مچانے والا۔
 مؤنث صخب و صخب و صخب و
 صخب و صخبی۔
 صخذ (س) صخذاً و صخذاناً
 الیوم: سخت گرم ہونا۔
 صخذته (ف) صخذاً: الشمس: جلانا۔
 الصخذ: ثورے کا آواز کرنا۔
 صخذ (ف) صخذاً: الیہ: کان لگانا۔
 اصخذ: الحز: گرمی تیز ہونا۔ الرجل
 گرمی میں داخل ہونا۔ الحزباء: گرگت کا
 دھوپ کھانا۔
 الصاخدة: دوپہری۔
 الصخذان و الصخذان: سخت گرمی کا دن۔
 صیخذ: الشمس: گرہ آفتاب۔
 حاجرة صیخذ: سخت گرم دوپہری۔ ج
 صیخند: صیخند الحز: گرمی کی تیزی۔
 المصخذة: دوپہر ج مصاخد۔
 المصطحب: دھوپ میں کھڑا ہونے والا۔
 صخرة: فرما تیار کرنا۔
 اصخر: المكان: پتھر یا ہونا۔ صفت
 مضخر۔
 الصخرة الصخرة: ٹھوس بڑا پتھر۔ چٹان۔ ج
 صخر و صخر و صخر و صخر و
 صخرات: کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ صخرة“
 الوادی“ فلاں بہت مستقل ہے۔
 الصخر: من الامکنة: پتھر ملی جگہ۔ کہا جاتا
 ہے ”هو صخر الوجه او اصخر الوجه“ یعنی

صَادِرَهُ عَلَى الشَّيْءِ بِهِ: اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنا۔

تَصَدَّرَ: صدر مجلس میں بیٹھنا۔ کہا جاتا ہے "تَصَدَّرَ الْمَجْلِسُ" مجلس میں سینہ نکال کر بیٹھنا۔

الْقَرَضُ: گھوڑے کا آگے کو سینہ نکالنا۔ تَصَادَرُوا عَلَى مَاضِعًا: صدروا۔

الْصَدْرُ: ہر چیز کا سامنے سے اور کا حصہ۔ سینہ۔ ہر چیز کا ابتدائی حصہ۔ ہر چیز کا ایک ٹکڑا۔ تم کہتے ہو "أَخَذْتُ صَدْرًا مِنْهُ" میں نے اس میں سے ایک حصہ لے لیا۔ صَدْرُ الْقَوْمِ: رئیس۔ الصَدْرُ الْأَعْظَمُ: وزیر اعظم۔ صِغْرُ صَدْرٍ: بَنَاتُ الصَّدْرِ: انکار۔

ذَاتُ الصَّدْرِ: سینہ کی ایک بیماری کا نام۔ صَدْرُ الْوَادِي: وادی کا اگلا اور اعلیٰ حصہ۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ الشَّيْءُ بِصَدْرِهِ" یعنی ازل حصہ کو لے لیا۔ فَلَانٌ يَهْدِي الصَّدْرَ: یعنی غیر مربیان۔ الصَّدْرُ: پانی پر سے واپسی۔ سفر سے واپسی۔ صَادِرٌ كَالْمَجْحَمِ: الصادر۔

فا۔ لوتنے والا۔ پانی پر سے لوتنے والے پر عموماً بولا جاتا ہے اور اس کا مقابل وارد ہے۔ یعنی پانی پر آنے والا۔ اور اسی سے ہے "مَالَةٌ صَادِرٌ وَلَا وَارِدٌ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ ظَرْفٌ صَادِرٌ: پانی پر لے جانے والا راستہ۔ ظَرْفٌ وَارِدٌ صَادِرٌ: ایسا راستہ جس سے پانی پر لوگ آئیں جائیں۔

الْصَدْرَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ: سینہ یا سینے کا اوپر کا حصہ۔ صدری۔ واسکٹ۔

التَّصْدِيرُ: نکل اُونٹ کے سینے کا۔

الْصَادِرُ: صدری۔ اُونٹ کے سینے پر نشان۔

الْصَدَاةُ: تقدم۔ وزارتِ عظمیٰ کا عمدہ (والصديرة) سینے کا اوپر کا حصہ۔ صِغْرُ صَدْرٍ: الاَصْدَرُ: مضبوط بڑے سینے والا۔

الْأَصْدْرَانُ: کبھی کے نیچے کی رگیں۔

الْمُصَدِّرُ: جانے صدر۔ صِغْرُ مَضَادٍ اور اسی

سے مصادر افعال ہیں اس لیے کہ مصادر

مشقات کے لئے اصل و جز ہیں۔

الْمُصَدِّرُ: فا۔ زَجَلٌ مُصَدِّرٌ: کاموں کو پورا کرنے والا۔

الْمُصَدِّرُ: قوی اور بڑے سینہ والا۔ آگے بڑھنے والا گھوڑا۔ شیر۔ بھیڑیا۔

صَدَغَ (ف) صَدَغُوا: اِلَى كَذَا: ناکل ہونا۔

صَدَغَ (ف) صَدَغَا: الشَّيْءُ: اس طرح بھانڑنا

کہ جدا نہ ہو۔ الْقَوْمُ: متفرق کر دینا۔

الْأَمْرُ: ظاہر کرنا۔ بِالْحَقِّ: حق بات کو کھلم

کھلا بیان کرنا۔ فِي الْأَمْرِ: کر گزرتا۔

الْأَمْرُ بِالْحَقِّ: حق کا فیصلہ کرنا۔ فَلَانًا: قصد

کرنا۔ صَدَغَ عَنْ كَذَا: بروک دینا۔ النَّهْرُ:

کاٹ دینا۔ فِي الْمَكَانِ: گزرتا۔ عبور کرنا۔ کہا

جاتا ہے "هَذَا الطَّرِيقُ يَصَدِّغُ فِي أَرْضِ كَذَا"

یہ راستہ فلاں زمین میں گزرتا ہے۔ اللَّيْلُ:

رات میں چلنا۔

صَدَغَ وَصَدَغَ: درد میں مبتلا ہونا۔ صفت

مَصْدُوقٌ۔

صَدَغَ: الشَّيْءُ: بھانڑنا۔ الْفَلَاةُ أَوْ النَّهْرُ:

بیابان یا نہر کو طے کرنا۔

تَصَدَّغَ: الْقَوْمُ: متفرق ہونا۔ تَصَدَّعَتِ

الْأَرْضُ بِهِ: وہ زمین میں بھاگ کر غائب ہو گیا۔

تَصَدَّغَ وَالْمَصَدَّغُ: الشَّيْءُ: پھٹنا۔ کہا جاتا ہے

"تَصَدَّعَتْ وَأَنْصَدَّعَتْ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ"

یعنی زمین میں روئیدگی ظاہر ہوئی۔ اِنْصَدَّغَ

الضَّبَاخُ: ضُحًى کی روشنی پھیلنا۔

الضَّادِعُ: فا۔ قاضی۔ حَبْلٌ ضَادِعٌ: ذور تک

پھیلا ہوا پہاڑ۔ وَادٍ ضَادِعٌ: ذور تک پھیلنا۔

وَادِيٌّ: سبیلٌ ضَادِعٌ: ذور تک پھیلا ہوا راستہ۔

ضَبْعٌ ضَادِعٌ: روشن شمع۔

الضَّغُ: حِكَافٌ۔ صِغْرُ صَدْرٍ۔

الضَّغُ وَالضَّغُ: ہلکا ہلکا مرو۔ قوی جوان۔

ضَدَغُ الْحَوْبِدِ: لوہے کا مورچہ۔ زنگ۔ کہا جاتا

ہے "النَّاسُ عَلَيْهِمْ ضَدَغٌ وَاجِدٌ" لوگ ان

کے اوپر عداوت میں متفق ہیں۔

الضَّغُ: آدمیوں کی جماعت۔ دو برابر میں پٹی

ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔

الضَّغَةُ: اسم مرءة۔ پھٹن۔ پراگندگی۔ تَفَرُّقٌ۔ صِغْرُ صَدْعَاتٍ: کہا جاتا ہے "وَأَيْتٌ بَيْنَهُمْ

صَدْعَاتٍ" یعنی رائے اور خواہشات میں اختلافات و "أَصْلِحُوا مَا فِيكُمْ مِنْ

الصَّدْعَاتِ" یعنی جمع ہو جاؤ اور متفرق مت ہو۔

الصَّدْعَةُ: صِغْرُ صَدْعٍ وَالصَّدْيَعُ: صِغْرُ صَدْعٍ۔

بکریوں کا روپڑ۔ اُونٹوں کا گلہ۔ دو برابر میں پٹی

ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔ صَدْيَعٌ: بمعنی مصدوع۔

ضُجٌّ: پھٹا ہوا کپڑا۔ وہ کپڑا جو زرہ کے نیچے پٹنا

جائے۔

الصَّدَاعُ: درد سر۔

التَّصَدُّعُ: تفریق۔

المُصَدَّعُ: سخت زمین میں نرم راستہ۔ صِغْرُ

مَصْدُوعٍ۔

المُصَدَّعُ: نیزہ۔ تیر۔ چھری کا چوڑا پھل۔

حَبْلٌ مَصْفُوعٌ مَصْدُوعٌ: بلخِ حَبْلٍ۔

صَدَغَةُ (ف) صَدَغَا: عَنِ الْأَمْرِ: باز رکھنا۔

رکھنا۔ سیدھا کرنا۔ التَّمَلُّةُ: بیوقوفی کو مارتا۔

صَدَغَةُ (ف) صَدَغَا: مَوْنُوحٌ سے مَوْنُوحًا

ملا کر چلانا۔

صَدَغَ (ن) اَصَدَغَا وَصَدَغُوا: اِلَى الشَّيْءِ:

ناکل ہونا۔

صَدَغَ (ك) اَصَدَغَا: كَزُورٍ وَدَاوِلٍ ہونا۔

صَدَغَ: کبھی کے درد میں مبتلا ہونا۔

صَادَغَهُ: مَوْنُوحٌ سے مَوْنُوحًا ملا کر چلنے میں

مقابلہ کرنا۔

الصَّدْعُ: کبھی۔ کبھی کے بال۔ صِغْرُ اَصْدَاغٍ۔

الصَّدَغُ: کبھی۔ کبھی۔ ٹیڑھا پن۔

الصَّدَاغُ: کبھی پر نشان۔

الصَّدْيَعُ: کزور۔ تین دن کا پتھر۔

الْأَصْدَغَانُ: دونوں کبھی کے نیچے کی رگیں۔

الْمِصْدَغَةُ: کلمہ۔

بَعِيْرٌ مُصَدَّغٌ وَمُصَدَّوْعٌ: کبھی پر نشان والا

اُونٹ۔

صَدْفٌ (ن) ض) صَدَفًا وَصَدُوفًا: پھر چلانا۔

صَدْفٌ (ض) صَدَفًا: عَنَهُ: اعراض کرنا

فَلَانًا: پھیر دینا۔ پھاننا۔

صَدْفٌ (س) صَدَفًا: گھوڑے کی رانوں کا

قریب اور کھروں کا دور ہونا۔

<p>روزی ایک ہی مرتبہ دے دی۔ الصَّدَقَاتُ وَالصَّدَقَاتُ مِثْلَانِ كَمَا فِي جانب۔</p>	<p>کمال شخص۔ ج صدق و صدق و صدقون۔ مؤنث صدقة صدقات۔</p>	<p>صَادِقَةٌ بِأَنَّهَا تَصَادَفَ أَيْ كَانَتْ دُونَ مَعْرِفَةِ الْمُضَادِّ بِأَنَّهَا تَقَابَلَتْ بِهَا۔</p>
<p>الأَصْدَمُ وَهُوَ مَعْصُومٌ جَسَدِيٌّ كَمَا فِي جانب کے بال گر گئے ہوں۔</p>	<p>الصدق ج۔ نعت۔ صلاح۔ حجت۔ مضبوطی۔ کما جاتا ہے "هُوَ زَجَلٌ صَدِيقٌ وَصَدِيقٌ صَدِيقٌ" مراد اسی اور دوستی میں سچا ہے۔ یعنی کمال ہے۔</p>	<p>الصدقة۔ فی الخبيل۔ رائوں کی زد کی اور کھروں کی دوری۔ الصدق الصدقة۔ جانب۔ کنارہ۔</p>
<p>زَجَلٌ مَضْمُونٌ بِجَمْعِ بَلَدٍ۔ صَدَا يَصْدُو صَدْوًا وَصَدَى يَصْدِيهِ دوڑوں ہاتھوں سے تلی جاتا۔</p>	<p>الصدقة۔ خیرات۔ ج صدقات۔ الصدقة والصدقة والصدقة۔</p>	<p>الصدق والصدق والصدق والصدق۔ ہاڑ کا کنارہ۔ الصدق۔ زبان اور جڑے کا درمیانی حصہ۔</p>
<p>صفت صدو وصادو وصدیان۔ مؤنث صدوا صادیة ج صواذ۔ کہا جاتا ہے "أَنَا صَدِيقٌ إِلَى حَدِيثِكَ وَلِي أَخْشَاءُ صَوَائِدٍ" یعنی میں تمہاری بات چیت کا بہت مشتاق ہوں۔ صدی الشمیٰ لہا ہوتا۔</p>	<p>الصدق والصدق۔ مر۔ ج اصدیلة و صدق۔ الصدقة۔ جی دوستی۔</p>	<p>فَوْشٌ أَسْدَفٌ وَهُوَ كَهْوِ جَسَدِيٍّ كَمَا فِي رَأْسِ قَرِيبٍ قَرِيبٍ أَوْ كَهْوِ رُؤُوسٍ۔ الأصداف۔ سمندر کی موجیں۔ الصدقة۔ ملاقات۔</p>
<p>صَادَاهُ مُضَادَّةٌ مُتَابِلَةٌ كَمَا فِي صدی تصدیقہ۔ پیڑیہ۔ دوڑوں ہاتھوں سے تلی جاتا۔</p>	<p>الصادق۔ سچا۔ تَمَّ صَادِقٌ الْحَلَاوَةُ بِمَثَلِ مِثْلِي كَجَمْعٍ رِيَّةٌ صَادِقَةٌ خَالِصٌ نَيْتٌ حَسَنَةٌ صَادِقَةٌ بِشِدَّةٍ حَمَلَةٍ۔</p>	<p>الصدقوف۔ گندہ زمین۔ بہت اعراض کرنے والا۔</p>
<p>أَصْدَى إِضْدَاءً مَرْتًا جُجَلٌ كَوَجَلٍ۔ آواز باز گشت کرتا۔</p>	<p>الصدقوف۔ ہمیشہ سچ بولنے والا۔ ج صدق و صدق۔</p>	<p>الْمُضْدُوفُ مَضْمُونٌ بِجَمْعِهِ۔ صَدِيقٌ (ن) صَدَقًا وَصَدَقًا وَمُضْدُوفَةٌ وَ تَصْدَاقًا ج بولنا۔ فی وغیدہ ووعیدہ:</p>
<p>تَصْدَى لَهُ: دِرْطَةٌ هِيَ بُولٌ كَمَا فِي معاظنہ کے لیے متوجہ ہوتا۔</p>	<p>الصادق۔ بہت سچا۔ سچائی میں کمال۔ عمل سے اپنی بات کوچ کر دکھانے والا۔</p>	<p>پورا کرنا۔ فی الجملة۔ بہادری ظاہر کرنا۔ کما جاتا ہے "صَدِيقُ الْقِتَالِ وَصَدِيقُ فَلَانَا الْقِتَالِ" تخت جنگ کی۔ ہ النصیحة او الصحیحة: خالص صحبت یا نیت کرنا۔ ہ الحدیث: سچی بات بیان کرنا۔ سچی خبر۔</p>
<p>الصدی۔ تخت پیاس۔ آواز باز گشت۔ گونج۔ دماغ۔ اسلانی لاش۔ تعرض۔ ج اصداء کہا جاتا ہے "هُمُ الْيَوْمَ أَعْدَاءُ وَهُمْ غَدًا أَصْدَاءُ" یعنی وہ آج کے دن دشمن ہیں اور کل مرہ ہوں گے "و مَنَعَتْ صَدَاءَهُ" یعنی اس کے درپے ہونے کو روک دیا "مَضْمُونٌ صَدَاءَهُ" یعنی ہلاک ہو گیا۔ و "أَصْحَمَ اللَّهُ صَدَاءَهُ" یعنی ہلاک کر دے۔</p>	<p>حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا لقب۔ المضدق۔ کسی کی سچائی کا گواہ۔ کہا جاتا ہے "أِنَّهُ ذُو مَضْدِقٍ أَوْ ذُو مَضْدِقٍ" یعنی بہادر ہے جنگجو ہے یا تیز دوزن ہے والا۔</p>	<p>صَادِقُهُ صَدَاقًا وَ مُضَادَّةً۔ دوست بنا۔ صَادِقُهُ الْمَوَدَّةُ: خالص دوستی کرنا۔ أَصْدُقُ: الْإِبْتِغَاءُ بِشَيْءٍ كَمَا فِي مَقَرَّرٍ كَرْتَا۔</p>
<p>الصدی۔ الوکی ایک قسم جس کا سر بڑا ہوتا ہے اور جد حرم مجرود عمری وہ اپنے سر کو پھراتا ہے اور وہ آواز تاریک مقامات میں رہا کرتا ہے اور اس کا نام ہامہ بھی ہے۔</p>	<p>الصدی۔ الوکی ایک قسم جس کا سر بڑا ہوتا ہے اور جد حرم مجرود عمری وہ اپنے سر کو پھراتا ہے اور وہ آواز تاریک مقامات میں رہا کرتا ہے اور اس کا نام ہامہ بھی ہے۔</p>	<p>صَادِقُهُ صَدَاقًا وَ مُضَادَّةً۔ دوست بنا۔ صَادِقُهُ الْمَوَدَّةُ: خالص دوستی کرنا۔ أَصْدُقُ: الْإِبْتِغَاءُ بِشَيْءٍ كَمَا فِي مَقَرَّرٍ كَرْتَا۔</p>
<p>الصدی۔ الوکی ایک قسم جس کا سر بڑا ہوتا ہے اور جد حرم مجرود عمری وہ اپنے سر کو پھراتا ہے اور وہ آواز تاریک مقامات میں رہا کرتا ہے اور اس کا نام ہامہ بھی ہے۔</p>	<p>الصدی۔ الوکی ایک قسم جس کا سر بڑا ہوتا ہے اور جد حرم مجرود عمری وہ اپنے سر کو پھراتا ہے اور وہ آواز تاریک مقامات میں رہا کرتا ہے اور اس کا نام ہامہ بھی ہے۔</p>	<p>تَصْدُقُ: حِدْرٌ دُونَ جُجَلٍ كَمَا فِي فَعِيرٍ كَوَكُوتِيٍّ حَيْثُ حِدْرٌ رِيَّةٌ۔ تَصَادَقًا: مَجْتَبَةٌ كَرْتَا۔ دوستی کرنا۔ تَصَادَقًا الحدیث او الموداة او فیہما۔ ایک دوسرے سے جی بات کہنا یا خالص دوستی کرنا۔</p>
<p>زمانہ جاہلیت میں خیال تھا کہ یہ معتول کے سر سے نکلتا ہے اور جب تک کہ اس معتول کا دل نہ لیا جائے پتھر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ۔ اور اسی وجہ سے اس کو صدی کہا جاتا ہے۔ صَوْرٌ (ن) صَوْرًا: الصُّورَةُ: حَمَلِيٌّ كَمَا فِي حَمَلِيٍّ الذَّاهِمِ فِي الصُّورَةِ: حَمَلِيٌّ مِثْلِيٌّ كَمَا فِي حَمَلِيٍّ</p>	<p>إِضْطِدَامٌ جَانِبِيٌّ كَمَا فِي حَمَلِيٍّ كَمَا فِي حَمَلِيٍّ الصدمة۔ اسم مرہ۔ دفعتاً واحداً کہا جاتا ہے "صُرِعَتْ بِصُدْمَةٍ" ایک ہی مرتبہ میں بچھاؤ دیا۔ "أَعْطَاهُ رِزْقٌ شَهْرَيْنِ بِصُدْمَةٍ" دو مہینے کی</p>	<p>الصدق۔ سیدھا نموس تیز ہو یا کوئی اور چیز) کہا جاتا ہے "زَمْعٌ صَدِيقٌ وَقَتْنَا صَدَقَةً" سیدھا نموس تیز۔ کال۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ" صَدِيقٌ اللَّقَاءُ وَ النَّظَرُ: مَلَاقَاتٌ أَوْ شَفَقَاتٌ مِثْلِيٌّ</p>

صاف ہونا۔ بے جھاگ کے ہونا۔ مثال ہے "صَرَخَ الْحَقُّ عَنِ مُخْضَبِهِ" یعنی حق پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ صَوَّحَتِ الْعَيْنَةُ: خشک سالی ہوئی۔ صَرَخَ الزَّامِيُّ: تیر انداز کا خطا کرنا۔

أَصْرَحَ الْأَمْرُ: ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔

صَارَحَهُ صِرَاحًا وَصَرَاحًا وَفَضَارَحَهُ: کلمہ کھلا کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَحَّةٌ فَضَارِحَةٌ أَوْ صِرَاحًا" روردر روگالی دی۔ صَارَحَ وَصَرَخَ بِمَا فِي نَفْسِهِ: دل کی بات ظاہر کرنا۔

إِنصَرَخَ الْحَقُّ: واضح ہونا۔ منکشف ہونا۔

تَصَرَّخَ: الزَّيْدُ عَنِ الْخَمْرِ: شراب سے جھاگ ڈور ہونا۔

الضَّرْحُ: قمر محل۔ ہر بلند عمارت۔ ج صُرُوحٌ

الضَّرْحَةُ: سخت زمین۔ صُرْحَةُ الدَّارِ: گھر کا صحن۔ ج صَرَخَاتٌ

الضَّرْحُ وَالضَّرَاحُ وَالصَّرَاحُ وَالضَّرَاحُ: خالص۔

الضَّرَاحَةُ وَالضَّرُوحَةُ: خلوص۔ وضاحت۔

الضَّرَاحِيَّةُ: مِنَ الْخَمْرِ: خالص شراب۔

شَرَابٌ كَابِرْتَنٌ: کہا جاتا ہے "يَكْدُبُ صَرَاحِيَّةً" یعنی سفید بھوت۔

الضَّرَاحِيُّ: واضح۔ ظاہر۔

يَوْمٌ مَصْرُوحٌ وَمُصْرُوحٌ: بے باطل کلان۔

صَرَخَ (ن) صَرَاحًا وَصَرَاحًا: سخت چیخنا۔

فَرِيَادُ كَرْنَا: الْقَوْمُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔

أَصْرَحَهُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔

تَصَرَّخَ بِتَكْلَفٍ: چیخنا۔

تَصَارَخَ وَاصْطَرَّخَ: الْقَوْمُ: چیخ دیکار پھانا

اور مدد طلب کرنا۔ اصْطَرَّخَ: بمعنی صَرَخَ

الضَّرَاحُ: فارغ۔

الصَّارِحَةُ: الضَّرَاحُ كَامُونَتْ: فریاد رسی۔

وَادُ خَوَائِي: وَادُ خَوَائِي كِي آواز۔ تم کہتے ہو

"سَمِعْتُ صَارِحَةَ الْقَوْمِ" میں نے قوم کی واد

خوای کی آواز سنی۔

الضَّرَاحُ: بہت زیادہ چیخنے والا۔ مور۔

الضَّرِيخُ: مع۔ فریاد رس۔ واد خواہ۔ ج

صَرَخَاءُ

الضَّرَاةُ وَالضَّرُورَةُ وَالصَّارُورَةُ وَ الصَّارُورَاءُ: وہ شخص جو نکاح نہ کرے اور حج نہ کرے (واحد اور جمع دونوں کے لئے)

الصَّرَاةُ: عقاب کی ایک قسم ہے جو ساق کو کھا جاتا ہے۔ الصَّرِيَّةُ: تھیلی میں رکھے ہوئے درہم۔ ج صَرَائِرُ

الْمَضَارِ: آتین۔

المَضْرُورُ: مضم۔ بندھا ہوا قیدی۔

صَرَوبَ (ض) صَرَوبًا: کانا، کمانا، دودھ کو ترش بنانا۔ پیشاب یا دودھ کو روکنا۔ الصَّيْبِيُّ: بچہ کا کئی دن پاخانہ نہ کرنا۔

صَرَوبَ (س) صَرَوبًا: اللَّبَنِيُّ: تھن میں دودھ جمع ہونا۔

أَصْرَبَ: إِلَيْهِمَا لَا: رہنا۔

صَرَوبَ: ترش دودھ پینا۔

إِصْطَرَبَ: اللَّبَنِيُّ فِي الْوَطْبِ: دودھ کو ترش ہونے کے لیے برتن میں تھوڑا تھوڑا جمع کرنا۔

إِصْرَابُ: الشَّيْءُ: صاف اور چمکانا ہونا۔

الضَّرُوبُ وَالضَّرُوبُ: بہت زیادہ ترش دودھ۔

سِرٌّ كَوْنٌ: بھول کا کوند۔ واحد صَرَوبَةٌ وَصَرَوبَةٌ

الضَّرُوبُ: غریب عربوں کے تھوڑے مکانات۔

الضَّرِيْبُ: کھٹا دودھ۔ ج صَرَوبُ

المَضْرُوبُ: مضم۔ جمع کیا ہوا کھٹا دودھ۔

المَضْرُوبُ: برتن جس میں دودھ جمع کیا جائے۔

ج مَضَارِبُ

صَرَخَ: الْحَوْضُ: حوض کو چونا، مٹی ملا کر بنانا۔

الْحَوْضُ بِالْقُوْرَةِ: حوض پر چونے کی قلعی کرنا۔

الصَّارُوحُ: چونا مٹی ملا ہوا (معرب)

صَرَخَ (ك) صَرَاحَةً وَصُرُوحَةً: صاف ہونا۔

خالص ہونا۔ واضح ہونا۔ صفت صَرَيفُ جمع

صَرَاحَاءُ مَوْنَتْ صَرَيفَةً

صَرَخَ (ف) صَرَاحًا: الْأَمْرُ: ظاہر کرنا۔ واضح

کرنا۔

صَرَخَ: الْمُتَكَلِّمُ: بغیر کتابہ کے کلمہ کھلا کرنا

بِمَا فِي نَفْسِهِ: ظاہر کرنا۔ الْأَمْرُ: واضح کرنا۔

الْأَمْرُ: واضح ہونا۔ لازم و متعدی ہے۔

التَّهَارُ: دُنْ كَابِهْ يَادِلْ هُوَا: الْخَمْرُ: شراب کا

الْفَرَسُ أَذْنُهُ وَبِأَذْنِهِ: گھوڑے کا کان کھڑے کرنا۔ النَّاقَةُ وَبِالنَّاقَةِ: تھن کو باندھ دینا تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے۔

صَرَ (م) صَرًَا وَصَرِيْرًا: الشَّيْءُ: چہرہ اتا۔ الزَّجْلُ: زور سے پیچنا چلانا۔ پیاسا ہونا۔ الْأَذْنُ: کان بچنا۔

صَرَ: التَّبَاتُ: ٹھنڈی ہوا لگ جانا۔

صَرَزَتِ النَّاقَةُ: آگے بڑھنا۔ صَرَزَ أَذْنُهُ سَنَةَ كَلِيْعَ كَانْ كَهْرُةَ كَرْنَا

صَارَةً مُضَارَةً: عَلِي كَذًا: مجبور کرنا۔

أَصْرَعَ: عَلِي الْأَمْرُ: بچتہ ارادہ کرنا۔ حاجت قدم رہنا اور اشرافی اور گناہوں میں استعمال کیا جاتا

ہے "أَصْرَعَ عَلِي الذَّنْبُ" جب کہ ہانڈ آئے۔

قرآن میں ہے ﴿كَانُوا يَصْرُوْنَ عَلِي الْحَنْبِ الْعَظِيمِ﴾ یعنی بڑے بھاری گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے۔ الشَّيْبَلُ: خوشے میں خار لگانا۔

الْفَرَسُ أَذْنُهُ وَبِأَذْنِهِ: گھوڑے کا کان کھڑے کرنا۔

الضَّرُ وَالضَّرُةُ: سردی۔ رِيْحٌ صِرٌّ: سخت

ٹھنڈی ہوا۔ تیز آواز والی ہوا۔ الضَّرُةُ: حج۔

الضَّرُةُ: شور۔ حج۔ لَرَائِي يَا كَرْمِي كِي تَبْرِي

ترش روئی۔ جماعت۔ تعویذ کے مرے۔

الضَّرُةُ: تھیلی۔ ہونہ۔ ج صَرَورُ

يَجِيْنُ صِرِّي: سخت قسم۔ کہا جاتا ہے "ہی

بشئ صِرِّي" یہ میری جانب سے کچی بات ہے۔

الضَّرُةُ: خوشے کا خاں۔ واحد صَرَورَةُ

الصَّارُ: فَا- شَجْرٌ صَارٌ: گنجان درخت۔

الصَّارَةُ: الصَّارُ: کامونٹ۔ حاجت۔ پیاس۔

ج صَرَارٌ

الصَّرُورُ وَالصَّارُورُ وَالصَّرُورِيُّ

وَالصَّارُورِيُّ: جو نکاح نہ کرے اور حج نہ کرے

(واحد اور جمع دونوں کے لئے)

الصَّرَارِيُّ: ملاح۔ ج صَرَارِيُونُ

الصَّرَارُ: دھاگا جس سے تھن کو باندھ دیا

جائے تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے۔ بلند مکان جس پر

پانی نہ چڑھ سکے۔ ج أَصِرَّةُ

الصَّرَارُ: صَارٌ كَامِ مَالِهْ: صَرَارُ اللَّبَنِيِّ

مبیکر۔

صرد (س) صرداً- السهم: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ نشانہ پر بیٹھا۔ الزجل: سردی برداشت کر لینا۔ سردی محسوس کرنا۔ السقاء: جھاگ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹکانا۔ کہا جاتا ہے ”صرد قلبین عتہ“ یعنی میرا دل اس سے ہٹ گیا۔

صرد (ن) صرداً و اصرد۔ الزامی السهم: نشانہ لگانا۔ اصرد السهم: تیر کا نشانہ پر نہ لگانا۔ صرد الشئ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اقطاء کم ربا۔ الزجل: میرا پی سے کم پلانا۔ الصرد: محض خالص۔ کہا جاتا ہے ”سقاه العنبر صرداً“ خالص شراب پلائی۔ اجبہ حنبا صرداً خالص نخت کی۔ پھاڑیں اوٹھی جگہ۔ بوا لکر۔ سردی۔ یوم صرد: ٹھنڈا دن۔ کہا جاتا ہے ”مات صرداً“ شربت سردی سے مرگیا۔ ارض صرد: سرد ٹک۔ ص صرد: اس کے خلاف ارض جزوم ہے۔ یعنی گرم ممالک۔ الصرد۔ بوا لکر۔ بھالے کی کھلیں جس میں نیزہ لگایا جائے۔

الصار۔ فالسهم صارد: نشانہ پر لگنے والا تیر۔ الصوار۔ ٹھنڈی ہوئیں۔ الصرد۔ ثور (ایک پرندہ کا نام) صردان۔ الصردان۔ زبان کے اندرونی حصہ کی دو رگیں۔

الصد۔ من الخیل: وہ گھوڑا جس کی پیٹھ زخمی ہو۔ من الرجال: سردی کو برداشت کرنے والا۔ سردی کو محسوس کرنے والا۔ ص صردی یوم صرد: سخت ٹھنڈا دن۔

الصرد والصد۔ بے پانی کا پتلا بادل۔ تعجہ صریدہ۔ سردی زدہ۔ بھیر۔ ص صرید۔ المصرد۔ بے درخت کی زمین۔ سردی برداشت کرنے والا یا نہ کرنے والا۔ السهم مصرداً۔ نشانہ پر لگنے والا تیر۔

سهم مصرد۔ نشانہ پر لگنے والا تیر۔ المضطرد۔ سخت غمناک۔ ص صرد۔ الصردا و الصفر۔ آواز کرنا۔ الرجل۔ بیٹھا۔ الشئ۔ چیز کے متضمر

اطراف کو جمع کرنا۔

الصصر۔ من الرياح: تیز چلنے والی یا زیادہ ٹھنڈی ہوا۔ مرغ (الصصر صر ج صرا صیر۔ الصر صر ج صرا صیر۔ جمبجگر۔ بھیرا۔ الصر صر ج صر صر۔ کشتی۔

المصراط۔ راستہ۔ ص صراط۔

المصراط۔ لمی تیز کھوار۔

صرعہ (ف) صرعاً و صرعاً و مصرعاً۔ پچھاڑ دینا۔ زمین پر گرا دینا۔ الشعر: دو مصرعے بنانا۔ الباب: دو کو اڑگانا۔

صرع۔ مرگی ہونا۔ کہا جاتا ہے ”صرع الشجر“ یعنی کاٹ دیا گیا اور ڈال دیا گیا۔

صرعہ۔ سخت پچھاڑنا۔ الشعر: مصرعے لگانا۔ الباب: کو اڑگانا۔

صراعہ صراعاً و مصراعاً۔ کشتی لڑنا۔ تصراع و اضطراع۔ الزجاجان: باہم کشتی لڑنا۔

انصرع۔ پچھاڑا جانا۔

تصرع۔ لصاحبه: تواضع کرنا۔ عاجزی ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مازلت اتصرع لہ و اللیہ حتی اجابنی“ میں عاجزی ظاہر کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے میری بات مان لی۔

الصنع۔ مہ۔ مرگی۔ مثل۔ مقابل۔ قسم کہا جاتا ہے ”هو صنع کذا“ یعنی وہ فلاں کے مقابل ہے۔ ص اصنع صر ج۔ والصنعان: رات دن یا صبح شام۔ کہا جاتا ہے ”اتینتہ صرعی النهار“ یعنی میں اس کے پاس صبح شام آیا اور ”هو ذو صرعین“ وہ دو قسم یعنی رنگ کا ہے ”ترکتھم صرعین“ یعنی میں نے ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔

الصنع۔ مہ۔ مثل قسم۔ ری کی لڑی۔ ص اصنع و صر ج۔ کشتی لڑنے والا۔ کہا جاتا ہے ”هما صنعان“ یعنی دونوں کشتی لڑنے والے ہیں۔

الصرعۃ۔ اسم مرۃ۔ حالت۔ کہا جاتا ہے ”هو یفعلہ علی کل صرعۃ“ مراد یہ ہے کہ ہر حالت میں کرتا ہے۔

الضرعۃ۔ جس کو لوگ پچھاڑیں۔

الضرعۃ و الصرعۃ و الصرعۃ و الصرعۃ۔ لوگوں کو زیادہ پچھاڑنے والا۔ کہا جاتا ہے ”قوم ضرعۃ“ یعنی ایسی قوم جو ہر کشتی لڑنے والے کو پچھاڑ دے۔ الضرعۃ: حلیم و بردبار۔ اس لیے کہ اس کی بردباری غضب و غصہ کو پچھاڑ دیتی ہے۔ الضرع جمع ضرع کی ہے۔ الصراعۃ۔ کشتی کا فن۔

الضریع۔ زمین پر پچھاڑا ہوا۔ مجنون۔ صرعی۔ کہا جاتا ہے ”نات ضریع الکاس“ یعنی مجنون ہو کر رات گزارا۔ درخت کی جھلی ہوئی شاخ۔ ص صرع۔

المصراع۔ مہ۔ پچھاڑنے کی جگہ۔ مصراع۔

المصراع من الباب: دروازے کا ایک پٹ۔ من الشعر: شعر کا ایک مصرعہ۔ ص صراع۔

صرفہ (ض) صرفاً۔ پھیرنا۔ ہٹانا۔ رفع کرنا۔

واپس کرنا۔ کہا جاتا ہے ”صرف اللہ قلوبہم“ مراد یہ ہے کہ اللہ ان کے قلوب کو گمراہ کر دے۔

صرف الشراب: خالص شراب پینا۔ ”الدنایین“ درانم سے یا دوسرے دنا تیر سے بدل لینا۔ الصال: خرچ کرنا۔

الکلیجۃ: منصرف بنانا۔ یعنی جروتین والا بنانا۔ صرف (ن) صرفاً۔ ہٹانا۔ دانت پینا۔

الباب: بند کرتے ہوئے یا کھولتے ہوئے دروازے سے آواز لگانا۔

صرفۃ۔ مبالغہ کے ساتھ صرف کے معنی میں ہے۔ صرف الشئ: بیٹھا۔ الذراہم: تبدیل کرنا۔ العنبر: خالص شراب پینا۔

الکلام: بات سے بات نکالنا۔ و فی الامر: سپرد کرنا۔ صرف الصاء: جاری کر دینا۔ اللہ الریاح: ایک جانب سے دوسری جانب پھیر دینا۔

صارفہ۔ مبادلہ کرنا۔ صارف نفسه عن الشئ: پھیر دینا۔ ہار کھانا۔

اصرفہ۔ عن کذا: رو کر دینا۔ ہٹا دینا۔ اصرف الشراب: کچھ نہ مانا۔

والا- الصَّرَامُ جنگ- مصیبت- زَجَلٌ صُرَامٌ :
کائنات میں قوی فرد۔

الصَّرِيمُ- کٹا ہوا- رات یا اس کا ایک حصہ-
ضج- کڑی جو بکری کے بچے کے منہ میں باندھ دی
جاتے تاکہ دودھ نہ پئے- زمین جس کی کھیتی کٹ
پھلی ہو- قلد جو کھیت سے کٹ چکا ہو- صَرِيْمًا
اللَّيْلِ: رات کا ازل و آخر حصہ- أَمْرٌ صَرِيْمٌ:
لازمی امر۔

الصَّرِيْمَةُ عزیمت- رات کا گھڑا-
الصَّرِيْمُ: پختہ رائے والا- مصیبت- دن میں
ایک بار کھانا۔

الأَصْرَمُ- جس کے کانوں کے کنارے کٹے
ہوئے ہوں- مَوْنٌ صَرْمًا ج صَرْمٌ ()
والْمُضْرَمُ: ہت پال بچے والا مفلس-
الأَصْرَمَانِ- رات دن- کواؤں بھیرنا- کہا جاتا
ہے "تَوَكَّفَهُ يَوْجِشُ الْأَصْرَمَيْنِ" یعنی ایسے
جنگل میں قتل کیا جس میں صرف بھیرے اور
کوئے ہیں۔

الصَّرْمَاءُ- الأَصْرَمُ کامونٹ- بے پانی کا
جنگل- ہانڈی- کم دودھ والی اونٹنی-
المَصْرَمُ- ایسی جگہ جو تنگ ہو اور جلدی
سیلاب آجائے۔

المِضْرَمُ- دارتخی-
الصَّرْمَانِيَةُ بامری کی قسم کا ایک باج-
صَرْمِيضْرَمٌ وَاصْرَمٌ: اَلِيَّةُ: روکنا۔

صَرْمِيضْرَمِيٌّ صَرْمِيضْرَمِيٌّ الشَّيْءُ: دفع کرنا- ہٹانا-
ذور کرنا- کہا جاتا ہے "صَرْمِيضْرَمِيٌّ اللّٰهُ عَنهُ الشَّيْءُ"
اللہ اس شر کو ذور کرے- صَرْمِيضْرَمِيٌّ بِيضْرَمِيٍّ:
روک دینا۔

فَلَانًا: منع کرنا- پھانا- ہلاکت سے نجات
دینا۔

الشَّيْءُ: بلند ہونا- نیچے ہونا ۱۔ الْقَوْمُ:
آگے بڑھ جانا- پیچھے ہٹ جانا ۲۔ يَنْتَهَمُ:
فیصلہ کرنا۔

صَرْمِيضْرَمِيٌّ صَرْمِيضْرَمِيٌّ: صَرْمِيضْرَمِيٌّ: دیر تک
ٹھہرنے سے ختم ہونا ۱۔ اللَّيْلُ: دودھ کا مزہ
بدل جانا ۲۔ فَلَانٌ فِي يَدِ فَلَانٍ: کسی آدمی کا
کسی کے ہاتھ میں قید ہونا ۳۔ الذَّمُّعُ: آنسو کا

الصَّرَافُ وَالصَّرِيْفُ وَالصَّرِيْفِيُّ- روپے
پیسے کی تجارت کرنے والا- ج صَرِيْفَةٌ۔

الصَّرَافُ وَالصَّرِيْفِيُّ- علم صرف کا جاننے والا-
المُتَصَرِّفُ- نلک کے ایک حصہ کا نام-
المُتَصَرِّفِيَّةُ- نلک کا ایک حصہ- نلک کے ایک
حصہ کا نام-

الصَّرِيْقَةُ- چپائی- ج صَرِيْقِيٌّ وَ صَرِيْقٌ وَ
صَرَاتِقٌ-
صَرْفَعٌ: أَصَابِعُهُ: انگلیاں پچھانا۔
صَرْفَاعَةٌ: گوچھن- گوچھن کا وہ کنارہ جس سے
آواز نکلے۔

صَرْمٌ (ك) صَرْمَاةٌ: السَّيْفُ: کائنا ۱۔
الزَّجَلُ: دیر چھالاک ہونا۔
صَرْمٌ (ش) صَرْمًا وَ صَرْمًا- الحَنْجَلُ: ٹوٹنا
۱۔ الشَّيْءُ: کائنا: فَلَانًا: چھوڑنا- نکلنا بند کرنا
۲۔ فَلَانٌ عِنْدَ نَاشِرُهُ: اقامت کرنا۔
صَرْمَةٌ- صرم کا ماخذ ہے۔

صَرْمَةٌ مَلْصَرْمَةٌ: مَقَالَةٌ کرنا- علمیدہ ہونا۔
أَصْرَمُ- الزَّجَلُ: محتاج ہونا ۱۔ النَّخْلُ:
پھل توڑنے کا وقت قریب ہونا۔

تَصْرَمُ- الزَّجَلُ: ہمداری کرنا۔
تَصْرَمٌ وَانْصَرَمٌ- کٹ جانا- ٹوٹ جانا۔

تَصْرَمَتْ وَانْصَرَمَتْ السَّنَةُ: سال ختم ہونا۔
تَصْرَمُ- الْقَوْمُ: قطع تعلق کر لینا۔
إِصْطَرَمَ- الشَّيْءُ: کائنا۔

الصَّرْمُ: مہ- کھال (مہرب چرم) الصَّرْمَاءُ:
چرم فروش۔

الصَّرْمُ- جماعت- مکانوں کا اجتماع- قسم- چڑے
کا موزہ نعل لگا ہوا- ج أَصْرَامٌ وَأَصْرَامٌ وَ
أَصْرَامِيْمٌ وَصُرْمَانٌ۔

الصَّرْمُ- مہ- بے تعلق-
الصَّرْمَةُ- قسم- اونٹوں کا گلہ- باروں کا گھڑا-
چاندی کا گھڑا- ج صَرْمٌ۔

الصَّرْمُ- قا- ہمدار- شیر- کائے والی تلوار- ج
صَرْمَارٌ۔

الصَّرْمَاةُ- مہ- زَجَلٌ صَرْمَاةٌ: مستقل
بالرائے- ذہن کلپکا۔

الصَّرْمُومُ- کائے والی تلوار- اچھی طرح کائے

تَصْرَفٌ: فِي الْأَمْرِ: کسی معاملہ میں تصرف
کرنا- تَصْرَفْتُ بِهِ الْأَخْوَالَ: مصائب و آفات کا
غالب آجانا۔

انْصَرَفَ- الزَّجَلُ: باز رہنا- انْصَرَفَتْ
الْكَلِمَةُ: منصرف ہونا۔

إِصْطَرَفَ- کمالی کرنے کیلئے پھرنا ۱۔
الذَّرَاهِمُ: بدل لینا- تم کہتے ہو "إِصْطَرَفْتُ
هَذِهِ الذَّرَاهِمَ بِبَيْتَانٍ" یعنی میں نے ان ذراہم
کو دینار سے بدل لیا۔

اسْتَصْرَفَ- اللّٰهُ الْمَكَارَةَ: کمزورہات کو بھیج
دینے کی دعا کرنا۔

الصَّرْفُ- ایک علم کا نام ہے جس میں کلمات
عربیہ کے صیغوں کی وضع و ہیئت وغیرہ سے بحث
کی جاتی ہے- صَرْفُ الذَّهْرِ وَ صَرْفُوهُ:
مصائب زمانہ- فضیلت- کہا جاتا ہے "لَهُ عَلَيَّ
صَرْفٌ" اس کو مجھ پر فضیلت ہے- صَرْفُ
الْحَدِيثِ أَوْ الْكَلَامِ: کلام کی زیادتی اور تحسین
و تزئین- صَرْفُ النَّصَالِ: خرچ کرنا۔

الصَّرْفُ- خالص- جیسے "صَرَابٌ صَرْفٌ"
خالص شراب- ایک قسم کا سرخ رنگ۔

الصَّرْفَانُ الصَّرْفَانُ- رات دن-
الصَّرْفَانُ- موت- پتیل- سیر۔

الصَّرَافَةُ- مرانی کاپڑ-
الصَّرْفَةُ- اسم مرہ- گردش- مرہ- متزیل تعویذ
کا ایک منزل منازل قمریہ سے۔

أُونْتِي كَوْضُجٍ كَيْ وَتِ دُوهُ كَرَأْمَلِي ضُجٍ تَكْ كَيْلِي
چھوڑ دینا۔

الصَّرْوُوفُ- وہ اونٹنی جس کے داہنوں سے
آواز نکلے۔

الصَّرِيْفُ- مہ- چاندی خالص- صَرِيْفٌ
التَّيَابُ: دروازے کی چڑچڑاہٹ- صَرِيْفٌ
الْقَلْمُ: قلم کے پلٹنے کی آواز ()
والمَصْرُوفُ: ہر شے خالص سورخت کی خشک
شدہ شاخ۔

الصَّرِيْقَةُ- الصَّرِيْفُ کامونٹ- درخت خرا
کی خشک ٹہنی- چپائی- ج صَرْفٌ وَ صَرَاْفٌ
وَصَرِيْفٌ۔

تَصْرِيْفٌ- الذَّهْرُ: مصائب زمانہ۔

بھرا آتا اور نہ بہتا۔
 صریت و أصرت۔ التافة: اونٹنی کے تھن
 میں دودھ بھر جانا۔
 صرّی تضرّیة۔ الشاة: دودھ زیادہ معلوم
 ہونے کے لیے تھن میں روک دینا۔
 الصرّی۔ باقی ماندہ (۔۔ الصرّی) پانی جو دیر
 تک گھرا رہے۔ کہا جاتا ہے "لین صرّی" دودھ
 جس کا مزہ بدل گیا ہو۔
 الصاری۔ قاح۔ ج صراء و صراری و
 صراریون۔ بادیان کا نڈا۔ ج صوار۔
 الصاریة۔ الصاری کا مونت۔ کنواں جس کا
 پانی دیر تک ٹھرنے کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہو۔
 الصرّاة و الصرّی و المصرّاة۔ من الشاة
 او الثوق: وہ بکری یا اونٹنی جس کے تھن میں
 دودھ کئی روز چھوڑ دیا گیا ہو تاکہ جمع ہو جائے۔
 المصطقبو المصطبة۔ چبوترہ۔
 المصطب۔ لوبار کی نمائی۔
 المصطح۔ خشک جھگ۔ وہ جگہ جو غلہ کی گمائی
 کے لیے ہموار کی جائے۔ ج مصطاح۔
 صطرّان) صطرّان۔ لکھنا۔
 صینظر۔ داروغہ ہونا۔ محافظ ہونا۔
 المصطح۔ فصیح و لہج۔
 الأمصطمة۔ چیز کا بڑا حصہ۔ جمع ہونے کی جگہ۔
 وسط۔
 صعب (ک) صفرّیة۔ علیہ الأمر: دشوار
 ہونا۔ صفت صعب۔ مونت صعب۔ ج
 صعب۔
 أصعب۔ الأمر: مشکل ہونا۔ الشئی:
 مشکل پانا۔ الجھل: سواری چھوڑ دینے کی
 وجہ سے سرکش ہو جانا۔
 صاعبة مصاعبة۔ سختی کرنا۔
 صعبہ۔ دشوار بنانا۔
 تصعب۔ دشوار ہونا۔ مشکل ہونا۔ الأمر۔
 دشوار بنانا۔
 تصاعب۔ باہم سختی کرنا۔
 استصعب۔ مشکل ہونا۔ الشئی: مشکل پانا۔
 الصعب۔ مہ۔ دشوار۔ مشکل۔ خوددار۔ شیر۔
 الصغوب۔ دشوار۔ ج صعب۔

الصغوب۔ دشوار۔
 المصاعب۔ سختیاں۔ مشقتیں۔
 المصعب۔ سائز۔ گھوڑا جو سواری چھوڑ دینے
 سے سرکش ہو۔ ج مصاعب و مصاعب۔ کہا
 جاتا ہے "جھال مصاعب و مصاعب"
 سرکش اونٹ۔
 صغتر۔ النخل: پہاڑ پورینہ کھانا۔ الزججل
 الشئی: مزین کرنا۔
 الصغتر۔ پہاڑی پورینہ۔
 الصغتری۔ چالاک۔ کریم۔ بہادر۔
 صعد (س) صغورًا و صعدًا و صعدًا فی
 السلم: سیڑھی پر چڑھنا۔ یہ: چڑھانا۔
 صغورًا) المکان: نیچے جھانکتے ہوئے چڑھنا۔
 صعد۔ فی و علی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔
 فی الوادی: وادی میں اترنا۔
 صعد فیہ النظر: اوپر سے نیچے غور سے دیکھنا۔
 اصعد۔ تکہ کو جانا۔ فی الأرض: اونٹنی
 زمین کی طرف جانا۔ فی الوادی: وادی میں
 اترنا۔ فی العدو: تیز دوڑنا۔ ہ: چڑھنا۔
 اصعدت السفینة: بادیان کھینچ دینے سے ہوا کا
 کشتی کو لے اڑنا۔
 تصعد و تصاعد۔ چڑھنا۔ تصعدہ و
 تصاعدہ الأمر: دشوار و مشکل ہونا۔ تصعد
 النفس: مشکل سے سانس لگانا۔
 اضطعد۔ چڑھنا۔
 الصاعد۔ قاح۔ کہا جاتا ہے "بلغ کذا الصاعد"
 یعنی اس سے اوپر۔ اور یہ باعتبار حالت کے
 منصوب ہوا کرتا ہے۔
 الصعاد۔ بہت چڑھنے والا۔
 الصعد۔ بلندی۔ کہا جاتا ہے "هبط من صعد"
 بلندی سے اترنا و "هذ التبات بشؤ صعدًا" یہ
 پودہ بلندی میں بڑھتا ہے۔ ایک درخت ہے جس
 سے تار کو ل بچھلایا جاتا ہے۔
 الصعد۔ مشقت۔ عذاب صعد: سخت
 عذاب۔
 الصعید۔ مٹی۔ قبر۔ راستہ۔ زمین کا بلند حصہ۔ کہا
 جاتا ہے "صارت الحدیقة صعیدًا" یعنی باغ
 ہموار زمین ہو گیا جس میں درخت وغیرہ نہیں۔ ج

يَهْمُ الذَّهْوُ" یعنی زمانے نے ان کو پراندہ کر دیا۔
"تَصَفَّصَتْ صُفُوفُهُمْ" یعنی ان کی صفیں
متنفر ہو گئیں۔

الضَّعْفُ - متفرق (___ وَالضَّعْضَعُ)
ایک پرندہ ہے جس کے بدن پر نقطے ہوتے ہیں۔
ج صغاصع۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبُوا صغاصع" وہ
لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔
صُعِفَ صُعْفًا - کچکی لائن ہونا۔ صفت
مُصْفُوفٌ۔

أَصْعَفَ الزُّزْعُ - کھیتی کے خوشوں کا اس
لائق ہونا کہ مل ڈل کر اسے کھایا جاسکے۔
الصُّعْفَةُ - کچکی۔ سردی یا گھبراہٹ کی وجہ
سے۔

الصَّعْفُوقُ وَالصُّعْفُوقُ وَالصَّعْفَقِيُّ - وہ
فحص جو بغیر سرمایہ کے بازار میں تجارت کیلئے
جائے اور جب کوئی شخص کچھ خریدے تو اس کے
ساتھ شریک ہو جائے۔ کمزور جس کے پاس
تھیاری بھی نہ ہو اور شجاعت بھی نہ ہو۔
الصُّعْفُوقُ - کینز۔ ج صغافیق و صغافقہ۔
صَعَفَتْ (ف) صغاعقة۔ السماء القَوْمُ - بجلی
گرا۔ صَعَفَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ - بجلی گرا۔

صَعِقَ (س) صعقا۔ الزُعْدُ - زور سے بادل
گرنا۔ الزُكَيْتَةُ - کونیس کا گرجا۔
وَصَعِقَ صَعْقًا وَصَعِقًا وَصَعْقَةً وَتَصَعَقًا)
گرج سے غشی طاری ہو جانا۔ صفت صَعِقٌ۔
مَرَبًا - صَعِقَ التَّوْرُ صَعْقًا - بیل کا سخت ڈکارنا۔
أَصْعَقْنَهُ السَّمَاءُ - بجلی گرا۔ أَصْعَقَهُ قَتَلَ
کرتا۔

الصَّعِقُ - مہ - حج - موت۔

الصَّعِقُ - بادل کی گرج۔

الصَّاعِقَةُ - مہ - آگ ہے جو بہت ہی کڑک
اور گرج کے ساتھ آسمان سے گرتی ہے۔ موت۔
ہر مسلک عذاب - عذاب کی حج - ج صغواعق۔
المَصْعُوقُ - غشی والا - اچانک مرنے والا۔
الصُّعْفَرُ - پھلی کے انڈے۔

صَعِلَ (س) صعلًا و اصعلًا - چھوٹا سر اور
پتلی گردن والا ہونا۔ صفت أَصْعَلٌ - مؤنث
صُعْلَانٌ ج ضعلٌ۔

الصَّغْلُ - چھوٹے سرو والا (آدمی یا شتر مرغ یا
کھجور) لمبا۔ گدھا جس کے بال گر گئے ہوں۔
صَغْلَكَ صَغْلَكَ - محتاج بنانا۔ ذیلا کرنا۔

تَصَغَّلَكَ - فقیر و محتاج ہونا۔

الصُّغْلُوكُ - فقیر و محتاج۔ کمزور۔ ج صغالك
وَصَغَالِيكُ - صغاليك العَرَبُ - عرب کے چور
اور فقراء۔

أَصْعَنَ الرَّجُلُ - چھوٹے سرو والا اور کم عقل
ہونا۔

إِصْعَنَ الشَّيْءُ - باریک اور نازک ہونا۔

صَغَايِنُ صُغْوًا - باریک اور چھوٹا ہونا۔

الصُّغُو - چھوٹے چڑے۔ واحد صُغُوَةٌ
صَغَوَاتٌ - مولا۔ ج صغاء وَأَصْغَاءُ نَاقَةٌ
صُغُوَةٌ - چھوٹے سرو والی اونٹنی۔

الصُّغْبُ - جوں کے انڈے۔

صَغْرٌ (س) و صَغْرٌ (ك) صَغْرًا و صَغَارَةً و
صَغْرًا و صُغْرًا - چھوٹا ہونا۔

صَغْرٌ (ك) صَغْرًا و صُغْرًا و صَغَارًا و صَغَارَةً
و صُغْرًا - ذلیل ہونا۔ صَغْرَتِ الشَّمْسُ -
غروب کی طرف مائل ہونا۔

صَغْرٌ (ن) و صَغْرٌ (س) صَغْرًا - القَوْمُ - قوم
میں چھوٹا ہونا۔

صَغْرًا و أَصْغَرًا - چھوٹا بنانا۔ ذلیل کرنا۔ کہا جاتا
ہے "صَغْرَةٌ فِي أَغْيُنِ النَّاسِ" یعنی لوگوں کی نگاہ
میں ذلیل کیا۔ "أَصْغَرَتِ الْأَرْضُ" زمین چھوٹے
پودے والی ہوئی۔ أَصْغَرَ الْقَوْمُ - چھوٹے
چھوٹے سچے پیدا کرنا۔

تَصَاغَرَ - الرَّجُلُ - حقیر ہونا۔ کہا جاتا ہے
"تَصَاغَرَتِ إِلَيْهِ نَفْسُهُ" یعنی اس کا نفس حقیر
ہے قدر ہو گیا۔

إِسْتَصْغَرَهُ - چھوٹا پانا۔ چھوٹا سمجھنا
فَلَانٌ - چھوٹا طلب کرنا۔

الصُّغْرَةُ - اولاد میں سب سے چھوٹا۔ قوم میں
سب سے چھوٹا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صُغْرَةُ أَبَوَيْهِ" او
صُغْرَةُ أَوْلَادِهِ" وہ اپنے ماں باپ کی اولاد میں
سب سے چھوٹا ہے۔ قوم کے چھوٹے چھوٹے۔ کہا
جاتا ہے "أَنَا مِنَ الصُّغْرَةِ" یعنی میں چھوٹے
چھوٹے لوگوں میں سے ہوں۔

الصُّغَارُ وَالصُّغْرُ - ذلت - ظلم۔

الصُّغَارَةُ - چھوٹا پن۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں
کہ صغارات مرتبہ میں چھوٹا ہونا اور صُغْرُ
جسامت میں چھوٹا ہونا۔

الصُّغَارُ وَالصُّغْرَانُ - چھوٹا۔

الصُّغَاغِرُ - ذلیل۔ بے قدر۔ جو ذلت اور ظلم پر
راضی رہے۔ ج صُغْرَةٌ و صُغَاغِرُونَ۔

الصُّغَيْرُ - چھوٹا (مرتبہ یا جسامت میں) ج
صُغَارًا و صُغْرًا۔

الأَصْغَرُ - اسم تفضيل - ج أَصْغَارًا و أَصْغَرَةً
وَأَصْغَرُونَ - مؤنث صُغْرَى - ج صُغْرٌ۔

الأَصْغْرَانُ - ول و زبَان - اور اسی سے مثل
ہے "الضَّرْبُ بِأَصْغَرِيهِ" آدمی کی وقت و دو چھوٹی
چیزوں یعنی ول و زبان سے وابستہ ہے۔

صَغَايِنُ صُغْوًا و يَصْغِي صُغْوًا و يَصْغِي
صُغْيًا و صُغْيًا - إِلَيْهِ - جَمَلْنَا - التَّحْوِمُ او
الشَّمْسُ - ذوب ہونے لگنا۔ صفت صُغْوًا اور ج
صَوَاغٌ۔

أَصْغَى إِصْغَاءً - إِلَى حَدِيثِهِ - كَانَ لَكَ
إِلَيْهِ - سُنْتَهُ كَلِمَةً جَمَلْنَا - الإِنَاءُ -
جھکانا۔ الشَّيْءُ - کم کرنا۔ گھٹانا۔ تم کو گے
"أَصْغَى حَقَّةً" جبکہ حق گھٹایا۔

الصُّغُو - کونیس کا کنارہ۔ ذول کا کنارہ جو دو ہوا
ہو۔ صُغْوًا الْكَفُّ او الْمَعْرُوفَةُ - پھیل یا بچھ کا
گڑھا۔ ج أَصْغَاءُ۔

صَاغِيَةٌ - الرَّجُلُ - ماتحت لوگ۔ کہتے ہیں
"أَكْبَرُ مَرَا الرَّجُلِ فِي صَاغِيَتِهِ" یعنی اس کے
ماتحت لوگوں کے سامنے آدمی کا کرام کرو۔

صَفَّ (ن) صَفًّا و صَفَّفَ - الشَّيْءُ - صف بنانا
القَوْمُ - میدان جنگ میں صف بندی کرنا

صَفَّ الْقَوْمُ - صف بستہ کھڑا ہونا

الطَّائِرُ يَجْتَا حِمَا - پر پھیلانا اور حرکت نہ دینا
إِلَّا بِقَوْلِ أَيْمَانِهَا - اونٹوں کا اپنی ٹانگوں کو
ایک صف میں رکھنا۔ اللَّحْمُ - طول میں
کاننا۔ السَّرِيحُ - گدی بنانا۔

صَفَّ مَصَافَةً - الْقَوْمُ فِي الْقِتَالِ - میدان
جنگ میں صف بستہ کھڑا ہونا۔ فَلَانٌ
فَلَانًا - کسی کے چہرہ کے مقابل چہرہ بنانا۔

الأنوف. ستواں ناک۔ من الزؤوس: کپٹیوں کی طرف نکل اور پیشانی اور گدی کے درمیان طویل۔ من القلوب: جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہوں۔ من الناس: جو کافر سے کافرانہ طریقہ سے ملے اور مومن سے مومنانہ طریقے سے۔

المصْفَح: چوڑا۔ جس پر چوڑے پتھر لگے ہوئے ہوں۔ أَنْفُ الْمُصْفَحِ: ستواں ناک۔ المصْفَحَةُ وَ الْمُصْفَحَةُ: تلوار۔ ج مُصْفَحَاتٍ وَ مُصْفَحَاتٍ۔

صَفْدَةٌ (ض) صَفْدًا وَ صُفْدًا وَ صَفْدَةٌ: تید کرنا۔ پھٹلای لگانا۔

أَصْفَدَةٌ: تید کرنا۔ مَالًا: دینا۔

الصفد: بخشش۔ بندھن۔ ج أصفاد کہا جاتا ہے "الصفد صَفْدًا" یعنی داد و بخش تید ہے۔ الصفاد: ہر وہ چیز جس سے قیدی کو باندھا جائے۔ بندش۔

صَفْرٌ (ض) صَفِيرًا: ہونٹوں سے سبھی بھانا۔ صَفْرٌ بِالْفَرَسِ عِنْدَ وَرُودِهِ: گھوڑے کو پانی پلانے کے لئے بلانا۔

صَفْرٌ صَفْرًا: بیٹ میں سفارح ہونا۔ صفت مَصْفُورٌ (دیکھئے صَفْرًا)

صَبْرٌ (س) صَفْرًا وَ صُفْرًا وَ صُفْرَةٌ: الإناء: برتن کا خالی ہونا۔ کہا جاتا ہے "صِفْرٌ وَ طَابَهُ أَوْ إِنَاءٌ" یعنی ہلاک ہو گیا۔

صَفْرٌ: الشئ: زرد کرنا۔ الثوب: زرد رنگنا۔ الثیبت: خالی کرنا۔ للذابة: ہونٹوں سے جانور کے لئے سبھی بھانا۔

بِالذابة: جانور کو پانی پینے کے لئے بلانا۔

أَصْفَرٌ: محتاج ہونا۔ الإناء: خالی ہونا۔ الثیبت: خالی کرنا۔

إِصْفَرٌ إِصْفَارًا: زرد رنگ ہونا۔

الصفور و الصفرة و الصفرة: خالی۔ کہا جاتا ہے "بیت صفرة من المتاع" گھر سامان سے خالی ہے "هُوَ صَفْرٌ لَيْدٌ" وہ خالی ہاتھ ہے۔

الصفرة: سونا۔ پھیل۔

الصفرة: زبرد۔ اہل حساب کا وہ نقطہ جو عدد نہ ہونے پر دلالت کرے۔

صَفَحَتْ (ف) صَفْحًا: التافهة و غَيْرُهَا: درود کا ختم ہو جانا۔ صفت صافح۔

صَفْحٌ: الشئ: لبا چوڑا کرنا۔ المکان: مکان میں چوڑے چھروں کا فرش لگانا۔ صَفْحٌ بِبَيْتِهِ: تالی بھانا۔

أَصْفَحَ: السائل: محروم واپس کر دینا۔ الشئ: اُلْتَمِثْنَا۔

صَافِحَةٌ مُصَافِحَةٌ وَ صِافِحًا: ہاتھ ملانا۔ مصافحہ کرنا۔

تَصَفَّحَ: الشئ: تامل کرنا۔ دیر تک دیکھنا۔ القوم: چروں کو غور سے دیکھنا تاکہ حالات کا اندازہ ہو سکے۔ حالات کا جائزہ لینا۔

تَصَافَحَ: القوم: باہم گھر مصافحہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَصَافَحَتِ الْأَجْفَانُ" یعنی پلک لگ گئی۔ اِسْتَصَفَّحَهُ: الذئب: گناہ کی معافی چاہنا۔

الصفح: جانب۔ من الوجوه: رخسار۔ من الإنسان: پیلو۔ من السيف: چوڑا پیلو۔ ج صفاح: کہا جاتا ہے "صَرَبَ عَنَّةٌ صَفْحًا" یعنی اعراض کیا۔

الصفحة: من الشئ: جانب۔ چہرہ۔ من الكتاب: ورق کا ایک جانب۔ صفحه الرجل: سینہ کی چوڑائی۔ ج صفحات: الصفحان و الصفحتان: رخسارے۔

الصفح: چہرے اور تلوار کی چوڑائی۔ الصفاح و الصفح: رخسارہ یا پیشانی کی سمت زیادہ چوڑائی۔ کہا جاتا ہے "لَقِيَهُ صَفْحًا" وہ اس سے اچانک ملا۔

الصفیح: آسمان۔ ہر چوڑی چیز کا ظاہر۔ الصفیحہ: چوڑی تلوار۔ چوڑا پتھر۔ ہر چوڑی چیز کا ظاہر۔ صفیحہ الوجہ: چہرے کی کھال۔ ج صفیح و صفائح: الصفائح: سر کی چار ہڈیاں۔ دروازے کے تختے۔

الصفائح: پتے چوڑے پتھر۔ اونٹ جن کے کوہان بڑے ہوں۔ ج صفائح صفائح۔ الصفائح و الصفوح: معاف کرنے والا۔ الصفوح: معنی کریم۔

المصْفَح: چوڑا۔ اُلْتَمِثْنَا: ہوا۔ من الوجوه: ملائم و خوبصورت۔ من

بناے والا مصافحی کہلاتا ہے۔

أَصْفَ: السرج: زین کے لئے گدی بنانا۔

تَصَافَ: القوم: صفوں میں اکٹھا ہونا۔

إِصْطَفَى: القوم: صفوں میں کھڑا ہونا۔

الصف: سیدھی قطار۔ کلاس۔ صف بستہ قوم۔ ج صفوف۔

الصفف: زرہ کے نیچے کالیاس۔

الصففة: پھیلنے پر لگے ہوئے دانے۔ صففة السرج او الرحل: زین یا کایا کی گدی۔ صففة المشعج: سجد کا سایہ دار چہرہ۔ الصففة: گرمی کے لئے مکان جس کی چھت گھاس پھوس سے پٹی ہوئی ہو۔ صففة من الدهر: زمانے کی ایک مدت۔ ج صفف و صففات و صفاف۔

الصفاف: نا۔ الصاففة من الابل: جو اپنی ٹانگوں کو ایک صف میں کئے ہوئے ہوں۔ ج صفافات و صفواف: الصافات: فرشتے۔

نافقة صفوف: بہت درود دینے والی اونٹنی جو کثرت درود کی وجہ سے برتنوں کی صف لگا دے اور یا جو اپنی اگلی ٹانگوں کو درود دوہنے کے وقت ایک صف میں کر لے۔

الصفيف: خشک ہونے کے لئے دھوپ میں یا بھوننے کے لئے آگ پر صف لگائی ہوئی چیز۔

المصْف: صف باندھنے کی جگہ۔ میدان۔ جگہ۔ مطلقاً کثرت ہونے کی جگہ۔ ج مصاف۔

قَصَفْتُ الرجل: قوی و مضبوط ہونا۔

الصفيت و الصفيتان و الصفيتان: ہماری بھر کم جسم والا۔ قوی سخت اندام۔

صفح (ف) صفحًا: عتہ۔ روگردانی کرنا۔ اعراض کرنا۔ چھوڑ دینا۔ گناہ معاف کرنا۔ صفح السائل عن حاجتہ: حاجت پوری نہ کرنا۔ تم کہتے ہو "أَتَيْتُهُ فِي حَاجَةٍ فَصَفَحَنِي" میں اس کے پاس ایک حاجت سے آیا اس نے حاجت پوری نہیں کی۔ ہ بالسیف: تلوار کی چوڑائی کی طرف سے مارنا۔ الشئ: چوڑا کرنا۔ الناس: لوگوں میں مقابلہ کر کے ان کی حالت دیکھنا۔ وَرَقِي المصحف: ایک ایک ورق کو پیش کرنا۔ فِي الْأَمْرِ: غور کرنا۔

صفر۔ قمری مہینوں میں سے دوسرا مہینہ۔ کبھی غیر منصف بھی پڑھا جاتا ہے۔ حج اَصْفَار۔

الصَّفْرَان۔ عربی سال کے دو مہینے جس میں سے پہلے کا نام ظہور اسلام کے بعد محرم ہو گیا اور دوسرا نام اپنی حالت پر باقی رہا۔

الصَّفْر۔ صم۔ یرقان۔ بھوک۔ کہا جاتا ہے "عَضَّ عَلٰی شَرْشُوفِهِ الصَّفْرُ" یعنی بھوکا ہوا۔ عقل کہا جاتا ہے "لَا يَلْتَمِطُ هَذَا بِصَفْرِي" یہ میری عقل میں نہیں آتا۔ میرے دل میں نہیں چپکتا۔

الصفر۔ خال۔ حج اَصْفَار۔ کہا جاتا ہے "اِنَّاءُ اَصْفَارٌ" خالی برتن۔

الصَّفْرَةَ۔ ایک مرتبہ بھوکا ہونا۔

الصَّفْرَةَ زردی۔ سیاہی۔

الصَّفْرِيَّة۔ کثیر العیال محتاج۔ حج صفاریت۔

الصَّفْرِيّ وَالصَّفْرِيَّة۔ فعل خریف کی بارش۔ ایک پودہ جو فصل خریف میں ہوتا ہے۔

الصَّفَار۔ آواز۔ زرد رنگ کا پائی جو بیٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ کینچوا۔ بیٹ کے کیرے۔ زردی جو رنگ پر غالب ہو۔ وَالصَّفَارِ جَانُورِوں کے دانٹوں میں گھاس کا تھیر۔

الصَّفَارَةَ۔ مرجعاً ہوا پودہ۔

الصَّفِير۔ ہر آواز جو لمبی ہو اور حروف سے خالی ہو۔ حُرُوف الصَّفِيرِ: ذی محمد سن و صا در مملہ ہیں۔

الصَّفَار۔ ٹھنڈا۔

الصَّفَارَةَ۔ سببی۔ مقعد۔

الصَّفَارِيَّة۔ زردیوں کا پندہ۔

الصَّفِير۔ سببی بھانے والا چور۔ ایک پندہ ہے جو رات میں آواز کرتا رہتا ہے اس خوف سے کہ

کبھی سوئے میں پکڑ نہ لیا جائے۔ مثال ہے "هُوَ اَجْبُنٌ مِنْ صَافِرٍ" وہ صافر پندہ سے زیادہ بزدل ہے۔ ہر ایک پندہ جو شکار نہ کرے ہر ایک آواز

کرنے والا۔ پندہ۔ کہا جاتا ہے "مَا بِالذَّيْرِ صَافِرٌ" گھر میں کوئی آواز کرنے والا نہیں یعنی کوئی نہیں۔

الأَصْفَر۔ زرد رنگ والا۔ مؤنث صَفْرَاءُ عَجْ

صَفْر۔

الصَّفْر۔ دنا تیر۔

الأَصْفَرَان۔ زعفران اور سونا۔

الصَّفْرَاء۔ مؤنث اَصْفَر۔ سونا۔ پتا۔ نڈی جو اترے دے چکی ہو۔ ایک قسم کا پودہ جس کے پتے خس کے مانند ہوتے ہیں۔

المُصْفِر۔ نا۔ محتاج۔

المُصْفَرُ وَالْمُصْفَرُ۔ بھوکا۔

الصَّفْرِد۔ ایک پندہ جس کی بزدلی کی مثال دی جاتی ہے۔

صَفْرَف۔ الزجل: بیابان میں اکیلا چلنا

العُصْفُورُ: چڑیا کا چھمچانا۔

الصَّفْصَف۔ چڑیا۔

الصَّفْصَفَةَ۔ بیابان۔

الصَّفْصَاف۔ بید اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بید اس کی ایک قسم ہے۔ واحد صَفْصَافَةٌ۔

صَفْعَةٌ (ف) صَفْعًا۔ تھپھارنا۔

صَافِعَةٌ وَتَصَافَعًا۔ ایک دوسرے کو تھپھارنا۔

الصَّفْعَانِ وَالْمَصْفَعَاتِي۔ جس پر کثرت سے تھپھار لگائے جائیں۔

صَفْقَةٌ (ان ض) صَفْقًا۔ تھپکی لگانا۔ تالی جانا۔

صَفَقَ النَّبَابَ: دروازہ بند کرنا۔ کھولنا۔ (ضد)

الزَّجْلُ عَنِ مَرْأَدِهِ: کسی کو اس کے ارادہ سے باز رکھنا

الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ: پندہ کا بازوؤں کو پھیرنا

عَيْنُهُ: آنکھ بند کرنا

العُودُ: ربط کے تاروں کو حرکت دینا

القَدْحُ: پیالہ بھرنا

الشَّرَابُ: صفائی کیلئے ایک برتن سے دوسرے برتن میں کرنا

لَهُ بِالْبَيْعِ وَصَفَّقَ عَلٰی يَدَيْهِ وَصَفَّقَ يَدَهُ بِالْبَيْعَةِ: سودا کرنے کیلئے ہاتھ پر ہاتھ مارنا

الزَّجْلُ: جانا

ه بِالْمَنِيْفِ: تلواری مارنا

الرِّيْحُ الْأَشْجَارُ: ہوا کا درختوں کو حرکت دینا۔ کہا جاتا ہے "صَفَّقَتْ عَلَيْنَا صَافِقَةٌ" یعنی ہمارے پاس ایک جماعت آئی۔

صَفَّقَ (ك) صَفْقًا۔ الزجل: بے حیا ہونا

النَّوْبُ: کپڑے کا لٹھ ہونا۔

أَصْفَقَهُ: باز رکھنا۔ أَصْفَقَ النَّبَابَ وَالْقَدْحَ وَالشَّرَابَ بِمَعْنَى صَفَّقَ الحَوْضَ الحَوْضُ: حوض میں پانی جمع کرنا لِلْقَوْمِ: اِنَّا كَمَا تَلَانَا جَس

سے آسودگی ہو جائے۔ النَّوْبُ: کپڑے کو

گف بڑا۔ کہا جاتا ہے "أَصْفَقُوا عَلٰی قَوْلٍ وَاجِدٍ" یعنی ایک قول پر سب کا اتفاق کرنا

النَّوْبُ: مضرب و پریشان ہوئے۔

صَفَّقَ: الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ: پندے کا بازو

پھیرنا

حَوَّلَ الشَّيْءَ: طواف کرنا

الزَّجْلُ: جانا

الشَّرَابَ: صفائی کے لئے ایک برتن سے دوسرے برتن میں کرنا۔

صَافِقَ: الزَّجْلَانِ عِنْدَ التَّبِيْعِ: تبیع کے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ صَافِقَ الزَّجْلُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ: ایک پہلو سے دوسرے پہلو

پر ہونا۔ تَبِيْعَ قَوْمَيْنِ: ایک کپڑے کو دوسرے کے اوپر پھینکا۔

تَصَافَقَ: القَوْمُ: خرید و فروخت کرنا۔

تَصَفَّقَ: الزَّجْلُ: تردد کرنا لِلأَنْفِ: درپے ہونا۔

انصَفَقَ: واپس ہونا۔ پھر جانا

القَوْمُ عَلَيْهِ: موجود ہونا۔

احصَفَقَ: العُودُ: ربط کے تاروں کا متحرک ہونا

التَّجْرُ: موجوں کا متلاطم ہونا

القَوْمُ: مضرب ہونا

الأشْجَارُ: حرکت کرنا

النِّسَاءُ عَلٰی المَيْتِ: عورتوں کا میت پر لوجہ دینا کرنا۔

الصَّفْقُ: گوشہ۔ جانب۔ دروازہ کا کواڑ۔ صَفْقًا العُنُقُ: گردن کی دونوں اطراف۔ صَفْقًا الفَرْسُ: گھوڑے کے رخسارے۔ صَفْقُ الخَبْلِ: پہاڑ کی سطح۔ حج صَفْقُ

الصَّفْقُ: دروازے کا کواڑ۔ پت۔

الصَّفْقَةَ: خرید و فروخت میں ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔

عقد بیع۔ کہا جاتا ہے "صَفْقَةٌ وَابِحَةٌ" نفع بخش عقد بیع۔ "صَفْقَةٌ خَاصِرَةٌ" نقصان دہ عقد بیع "وَبِحَتْ صَفْقَتُكَ" تمہارا عقد بیع نفع بخش ہے۔

الصَّفْقُ: گوشہ۔ دماغ کا آخری حصہ۔

الصَّفَاقُ: کھال کے نیچے کی جھلی۔ پیٹ پر کی جھلی۔ وہ کھال جو لکڑی کی بنی ہوئی ڈھال پر مزہ دیتے ہیں۔ حج صَفْقُ

الصَّافِقَةُ نازل ہونے والی جماعت۔ مصیبت۔
 الصَّفَاقُ۔ صافق کا اسم مبالغہ۔ بہت زیادہ
 تجارت کے لئے سفر کرنے والا اور لین دین
 کرنے والا۔
 الصَّفُوقُ۔ بلند پہاڑ جس پر چھانڈا شور ہو۔
 بلند چٹنی چٹان۔ نرم کمان۔ ج صَفُوقُ۔
 الصَّفَاقُ۔ آنے جانے والے قافلے۔
 الصَّفَاقِيقُ وَالصَّفَاقِيقُ۔ مہجیتیں۔ حوادث۔
 الصَّفِيقُ۔ بے حیا۔ بے شرم۔ کہا جاتا ہے
 ”وَجْهٌ صَفِيقٌ“ بے شرم چہرہ ”نُوبٌ صَفِيقٌ“
 گف۔ کپڑا۔
 المصْفِقُ۔ راستہ۔
 المصْفَاقُ۔ فاتحہ پر ہاتھ مارنے والا
 مِنَ الْإِنْتِیلِ: جو ایک مرتبہ ایک پہلو پر سونے اور
 دوسری مرتبہ دوسرے پہلو پر۔
 صَفَقٌ (ض) صَفُوقًا۔ الفَرْسُ: گھوڑے کا
 تین ٹانگوں اور چوتھے کے کھر پر کھڑا ہونا
 الزُّجْلُ: دونوں قدم کو ایک نظر میں کرنا
 بِه الْأَرْضُ: زمین پر دے مارنا
 صَفَنًا الطَّائِرُ الْحَشِيشُ او الْوَرَقُ: پرندہ کا
 اپنے بچے کے لئے گھاس یا پتوں کو بے تہہ رکھنا
 الزُّجْلُ: نصیبتیں کی تھیلی کو کچھا دینا۔
 صَافِقٌ۔ الْقَوْمُ: قوم کے مقابل کھڑا ہونا۔
 الْمَاءُ بَيْنَهُمْ: پانی کو آپس میں تقسیم کرنا اور یہ
 اس طریقہ سے کہ برتن کی تہ میں کوئی نکتری
 وغیرہ رکھ دیتے تھے اور پھر اس میں پانی ڈالتے تھے
 جس سے نکتری نہ آب ہو جائے پھر ایک آدمی پیتا
 تھا پھر پانی ڈالتے تھے تو دوسرا پیتا تھا اور پھر اسی
 طرح کرتے رہتے تھے تاکہ ہر ایک کو برابر برابر
 پانی مل جائے اور یہ طریقہ پانی کی کمی کی وجہ سے
 سفر میں اختیار کیا کرتے تھے۔
 تَصَافِقٌ۔ الْقَوْمُ الْمَاءُ: مذکورہ بالا طریقہ سے
 پانی تقسیم کرنا۔
 الصَّفَنُ۔ خصیہ کی تھیلی۔ چڑے کا دسترخوان
 مستی کے وقت اونٹ کے منہ کی جھاگ۔ ج
 صَفْنٌ وَصَفْنٌ وَأَصْفَانٌ وَصَفْتَانٌ۔
 الصَّفْنُ۔ چڑے کی چھاگل۔ چرواہے کا توہرہ۔
 الصَّفْنَةُ۔ ایک مرتبہ عتدار حصص پانی تقسیم

کرنا۔ دسترخوان۔ مستی کے وقت اونٹ کے منہ کی
 جھاگ۔ چرواہے کا توہرہ۔
 الصَّفْنُ۔ ج اصْفَانٌ وَصَفْتَانٌ الصَّفْنَةُ۔ خصیہ
 کی تھیلی۔
 الصَّفَانُ۔ پندل کے نچلے حصہ میں ایک رگ۔
 مِنَ الْخَيْلِ: وہ گھوڑا جو تین ٹانگوں پر کھڑا ہو اور
 چوتھے پاؤں کا صرف کھر زمین پر لگائے۔ ج
 صَافِنَاتٌ وَصَوَافِنٌ وَصَفُونٌ۔
 صَفَايَةٌ صَفُوقٌ صَفُوقًا وَصَفُوقًا۔ صاف
 ہونا۔ الجَوْ: نضا کا بے ابرو ہونا۔ الْقَدْرُ:
 دیک کا خالص حصہ لے لینا۔ صَفَتٌ تَصْفُوقٌ
 صَفُوقًا وَصَفُوقٌ صَفَاةٌ النَّاقَةُ: بہت دودھ
 والی ہونا۔
 صَفَى تَصْفِيَةً الشَّيْءُ: صاف تھرا کرنا۔
 أَصْفَى إِصْفَاءً فَلَانَا الْوَدَّ: وَأَصْفَى لَهُ الْوَدَّ۔
 خالص نغمت کرنا۔ الَّذِي يَخْفُوقُ: کھودتے
 ہوئے پتھر تک پہنچ جانا جو آئندہ کھودنے سے
 روک دے۔ أَصْفَتِ الدَّجَاجَةَ: مرغی کا انڈے
 دینے سے رُک جانا۔ الشَّاعِرُ: شعر کہنے
 سے رُک جانا اور اسی سے ضرب المثل ہے ”أَنَا
 شَاكِرُكَ الَّذِي يَصْفِي وَشَاعِرُكَ الَّذِي لَا
 يَصْفِي“ یعنی میں تمہارا ایسا شکر گزار ہوں جو
 خالص نغمت کرتا ہے اور ایسا شاعر ہوں جو شعر کہنے
 میں رُکتا نہیں۔ أَصْفَى مِنَ الْمَالِ مَا لَمْ يَخَالِ
 ہونا۔ ہ بَكَدًا: مخصوص کرنا۔ راضی کر دینا
 الشَّيْءُ: کل لے لینا۔
 صَافِي مَصَافَاةً فَلَانَا: خالص نغمت کرنا۔
 تَصَافَى۔ الْقَوْمُ: بعض کا بعض سے خالص
 نغمت کرنا۔
 اسْتَصْفَى۔ الْمَالُ: کل لے لینا
 الزُّجْلُ: خالص دوست بنانا۔ کہا جاتا ہے۔
 ”اسْتَصْفَاهُ وَاصْطَفَاهُ“ یعنی جن لینا۔
 الصَّفُو۔ مہ۔ خالص نغمت () الصَّفُوقَةُ
 وَالصَّفُوقَةُ وَالصَّفُوقَةُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: خالص اور
 عمدہ۔
 الصَّافِي۔ صاف تھرا۔ يَوْمٌ صَافٍ: بے ابرو ہونا
 کا دن۔ كِلَابَةٌ صَافٍ: بغیر کوڑا کرکٹ کی گھاس۔
 الصَّافِيَةُ: زمین جس کے باشندے چلے گئے

ہوں یا مر گئے ہوں اور کوئی اس کا وارث نہ ہو۔
 ج صَوَافٍ۔
 الصَّفُوقَةُ۔ خالص دوست۔ طرز صفائی۔
 الصَّفُوقَةُ مِنَ الْمَاءِ وَنَحْوَهُ: تھوڑا سا پانی وغیرہ۔
 الصَّفَاءُ۔ جمع صَفَاةٌ کی بمعنی پتھر اور لقب ہے
 پطرس کا (کلمہ سربانی ہے)
 الصَّفَاةُ۔ ج صَفَاءٌ صَفُوقَاتٌ ج اصْفَاءٌ وَ
 صَفِيٌّ وَصَفِيٌّ۔
 الصَّفُوقَانَةُ۔ ج صَفُوقَانٌ وَ صَفُوقَانٌ
 وَالصَّفُوقَانُ۔ ٹھوس بڑا پتھر۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ
 لَا تَنْدَى صَفَاتَهُ“ مراد یہ ہے کہ بجیل ہے و
 ”فَلَانٌ لَا تَنْفَعُ لَهُ صَفَاةٌ“ یعنی کوئی اس کو
 تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔
 الصَّفُوقَانُ۔ چکنا پتھر۔ يَوْمٌ صَفُوقَانٌ: صاف
 دن۔
 الصَّفِيٌّ۔ مخلص دوست۔ ج اصْفِيَاءُ۔ مَوْتٌ
 صَفِيَّةٌ۔ ہر چیز کا خالص حصہ۔
 الصَّفِيَّةُ وَالصَّفِيَّةُ۔ مال نغمت کا وہ حصہ جو
 سردار اپنے لئے خاص کر لے۔
 الصَّفِيَّةُ۔ زیادہ دودھ والی اونٹنی۔ بہت پھلدار
 کھجور۔ ج صَفَايَا۔
 المصْفَاةُ۔ چھانچا۔ ج مصَافٍ۔
 المصْطَفَى۔ برگزیدہ۔ چنا ہوا۔
 صَقِبٌ (س) صَقَبًا۔ الْمَكَانُ: قریب ہونا۔
 بعید ہونا۔
 صَقَبَةٌ (ن) صَقَبًا۔ تھمر مارنا۔ الشَّيْءُ:
 جمع کرنا۔ الْبِنَاءُ: عمارت کو بلند کرنا۔
 الطَّائِرُ: پرندہ کا آواز کرنا۔
 صَاقِبَةٌ صَقَبَاتًا وَصَاقِبَةٌ۔ قریب کرنا۔ کہا جاتا
 ہے لَقِينَةٌ صَقَبَاتًا یعنی روبرو روبرو ملاقات کی۔
 أَصْقَبَةٌ۔ نزدیک کرنا۔ أَصْقَبَتِ الشَّيْءُ۔ قریب
 ہونا۔ کہا جاتا ہے ”أَصْقَبَتِكَ الصَّيْدُ“ یعنی شکار
 تم سے قریب ہے جس پر نشانہ لگانا ممکن ہے۔
 الصَّقْبُ۔ مکان کے اندر سب سے لمبا کھمبا۔
 ج صُقُوبٌ۔ لمبا۔ ج صَقَابٌ وَصُقَبَانٌ۔
 الصَّقْبُ وَالصَّقْبُ۔ قریب۔ نزدیک۔ کہا جاتا
 ہے ”ذَارِي مِنْ ذَارِهِ بِصَقْبٍ“ میرا گھر اس کے
 گھر کے قریب ہے۔ ”الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ“

پڑوسی اپنی قربت کی وجہ سے زیادہ حق دار ہے۔
 الصَّقَبَانِي - عطر فروش۔
 الصَّقْح وَالصَّقْحَة - سبج۔ سر کے اگلے حصہ کے بال گر جانا۔
 الْأَصْفَح - گنجا۔ مؤنث صَفْحَاء جمع صَفْح -
 صَفْرَة (ن) صَفْرَاء بِالْعَصَاء : لاشھی سے مارنا۔ اسی سے ہے "صَفْرَنِي بِكَلَامِهِ" اس نے مجھ کو اپنی گفتگو سے تلخ پینچائی _____ یہ الْأَرْضُ : زمین پر چلک دینا _____ الْجِحَازَة : ہتھوڑے سے پتھر توڑنا۔
 صَفْرُو وَصَفْرُ النَّارِ : آگ کو جلانا۔
 صَفْرَت (ن) صَفْرَاءُ وَصَفْرَة وَأَصْفَرَت - الشَّمْسُ أَوْ النَّارُ : آفتاب یا آگ کا تیز گرم ہونا۔ صَفْرَتُهُ الشَّمْسُ : آفتاب کا جھلس دینا۔
 صَفْر (ن) صَفْرًا وَاصْفَرَّ اللَّبَنُ : دودھ کا زیادہ کھٹا ہونا۔
 تَصَفَّرَ - شکرہ سے شکار کرنا _____ بِالْمَكَانِ - مکان میں ٹھہرنا۔ تَصَفَّرَتْ وَاصْفَرَّتِ النَّارُ : آگ کا جلانا۔
 الصَّفْرُ - گدھ اور عقاب کے علاوہ ہر پرندہ جو شکار کرے۔ شکرہ ایک پرندہ ہے جس سے شکار کیا جاتا ہے جس کو فارسی میں چرچر کہتے ہیں۔
 جِ اصْفَرَّ وَصَفُورٌ وَصَفُورَة وَ صِقَارٌ وَ صِقَارَة وَ صَفْرٌ - کہا جاتا ہے "صَفْرٌ صَاقِرٌ" یعنی تیز نگاہ والا۔
 الصَّفْرُ - بت کھٹا دودھ۔ سزا ہوا پانی۔ جِ صَفُورٌ وَصِقَارٌ -
 الصَّفْرُ وَالصَّفْرُ - شیرہ۔ تر کھجور کا ہوا خشک انگور کا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا التَّمْرُ اصْفَرَّ مِنْ ذَالِكَ" مراد یہ ہے کہ اس میں شیرہ زیادہ ہے۔
 الصَّفْرَة - بت کھٹا دودھ۔
 صَفْرٌ طَبَقٌ جَنَمٌ كَانَامٌ - یہ کلمہ غیر منصرف ہے اور ستر میں ایک لغت ہے۔
 الصَّقِيرُ - مِنَ الرَّطْبِ أَوْ الزَّبِيبِ : تر کھجور یا خشک انگور جو رس نکالنے کے قابل ہو۔ امْرَأَةٌ صَقْرَةٌ : بت تیز نگاہ والی عورت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِالصَّقْرِ وَالْبُقْرَاءِ وَالصَّقَاذِي وَالْبِقَاذِي" یعنی سفید جھوٹ بولا۔

الصَّفْرَة - پرندہ کی سبزی یا سیاہی کا سرخی یا زردی سے ملنا۔
 الصَّفْرَة حَوْضٌ كَالْبَيْتِ بِأَنِي -
 الصَّفَاوْرُ - ہتھوڑا جس سے پتھر توڑا جائے۔
 كَدَال () وَالصَّفَاوِرَة (مصيبت - بڑی مصیبت -
 الصَّفَاوِرَة - کھوپڑی کا اندرونی حصہ۔
 الصَّفَارُ - چغل خور۔ کافر۔ غیر مستحقین کو لغت کرنے والا۔ شیرہ کا بنانے والا اور پینچنے والا۔
 صَفْعَة (ف) صَفْعًا - سر پر مارنا۔ صَفْعٌ بِهِ الْأَرْضُ : بچھاڑ دینا _____ الرَّجُلُ : جانا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْرِي أَيْنَ صَفْعٌ" یعنی میں نہیں جانتا کہاں گیا۔ راستہ سے ہٹ جانا یا بھلائی اور کریم کے راستہ سے ہٹ جانا _____ الْحِمَارُ يَكْتُمُ : گدھے کے منہ یا سر پر داغ لگانا۔ کہا جاتا ہے صَفْعَتُهُ الصَّاعِقَة بِمَعْنَى صَفْعَتُهُ الصَّاعِقَة یعنی اس کے اوپر بجلی گری۔
 صَفْع (ف) صَفْعًا وَ صُقَاعًا وَ صَقِينًا الدَّبْكُ : مرغ کا باگ دینا () صَفْعًا وَ صُقَاعًا بِصَوْلِهِ : آواز بلند کرنا۔
 صَفْع (س) صَفْعًا الرَّجُلُ : بیہوش ہونا۔
 الْقَرْمُشُ أَوْ الظَّائِرُ : سر کے درمیان سفید ہونا۔
 صَفْتٌ اصْفَعٌ - صَفْعَتِ الْبَيْتِ : کھول گر جانا۔
 صُقِعٌ وَأَصْفَعٌ - الْمَكَانُ : سبج والا ہونا۔ پالا پڑنا۔
 صَفْعٌ لِفُلَانٍ : کسی کے لئے قسم کھانا۔
 اصْفَعُ الرَّجُلُ : سبج پر چلنا _____ الصَّقِينُ الْأَرْضُ : سبج پڑنا۔
 الصَّقِعُ - جانب۔ گوشہ۔ جِ اصصاع -
 الصَّقْعُ - سر میں بال کم ہونا یا بالکل نہ ہونا۔
 الصَّقْعُ - گنجا۔ غائب آدمی جس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ کہاں ہے۔ مَكَانٌ صَقْعٌ : پالا زدہ جگہ۔
 الصَّقْعَة - گھوڑوں اور پرندوں کے وسط سر میں پھیری۔
 الصَّقْعَاء - مؤنث اصْفَعٌ كَأَقْتَابِ -
 الصَّاقِعُ - جھوٹا۔ کہتے ہیں "صَة صَاقِعٌ" یعنی اے جھوٹے چہرہ۔
 الصَّاعِقَة - مؤنث صَاقِعٌ كَالْبَجْلِ -

الصَّقَاعُ - برقع۔ اوڑھنی کو تیل سے بھانے کے لئے چھتھرا۔ وہ چیز جس سے اوٹنی کی تاک کو باندھ دیں۔ اوٹ کی گدی پر داغ۔ صَّقَاعُ الْخَبَاءِ وہ رستی جس کو خید کے اوپر ڈال دیں اور اس کے دونوں کناروں کو دو طرف کھونٹے میں باندھ دیں اور ایسا اس وقت کرتے ہیں جب کہ ہوا کی تیزی کی وجہ سے خیمہ کے آگڑے کاے خوف ہو۔
 الصَّقِيعُ - سبج۔ پالا۔ ایک قسم کی بھڑ۔
 المَضْفَعُ - فصیح بلغ۔ بلند آواز والا۔ وہ شخص جس کو اپنے کلام میں التباس نہ ہو۔ جِ مَضْفَعٌ - صَوْلَقَةٌ - سر پر مارنا۔
 الصَّوْقَعَة - غصہ۔ سر کا درمیانی حصہ۔ اوڑھنی کو تیل سے بھانے والا کپڑا۔
 الصَّقْعَبُ - لبا۔ آواز نکالنے والا۔ (دانتوں سے یا دروازے سے)
 صَفْعَرٌ فِي أَذُنِهِ : کان میں چلانا۔
 الصَّقْعُرُ - گھنڈ پائی۔ سزا ہوا پانی۔
 صَقِلَ (ن) صَقْلًا وَصِقْلًا - الشَّيْءُ : صاف کرنا۔ چمکانا۔ رنگ دور کرنا۔ صفت صَاقِلٌ جِ صَقْلَةٌ - صفت مفعولٍ مَصْفُولٌ _____ الذَّائِبَةُ : دبا کرنا _____ ه بِالْعَصَا : لاشھی سے مارنا _____ بِهِ الْأَرْضُ : زمین پر چلک دینا۔
 صَقِلَ (س) صَقْلًا - صاف شدہ ہونا۔
 الصَّقِلُ - گھوڑے کے پہلو کی لہائی۔
 الصَّقْلُ - پہلو۔ جانوروں میں بکا چھکا۔
 الصَّقْلُ وَالصَّقْلَةُ - کر۔
 الصَّقْلُ - مختلف چال والا۔ کم گوشت کا گھوڑا۔
 فَرَسٌ صَقْلٌ : لمبے پہلو کا گھوڑا۔
 الصَّقِيلُ - صَاقِلٌ كَالْمِهَادِ - تلواروں کو تیز کرنے والا۔ جِ صَاقِلٌ وَصِاقِلَةٌ -
 الصَّقِيلُ - صاف کیا ہوا۔ تلوار۔
 الصَّقَالُ - صَاقِلٌ كَالْمِهَادِ -
 صَقِيلَةٌ وَصَقِيلَةٌ - جزیرہ سسلی جو اٹلی کے جنوب مغرب میں ہے۔
 المِصْقَلُ - مِنَ الْخَطْبَاءِ : فصیح بلغ۔
 المِصْقَلَةُ - جس سے میل کیا جائے۔
 الصَّقَبُ وَالصَّقَلِي وَالصَّقَلَابِي - ایک

قوم جو بلخ اور قسطنطنیہ کے درمیان رہا کرتی تھی اور بعد میں یورپ میں پھیل گئی۔

صَلْبَةُ (ان) صَلْبًا: زور سے مارنا۔ لہمانچہ مارنا۔ صَلْبُ الْبَابِ: دروازہ بند کرنا۔

صَلْبٌ (س) صَلْبًا: الزَّجْلُ او الْفَرْسُ: چلنے میں گھٹنے اور ریزوں کا ٹکرنا۔ صفتِ أَصْلٌ: اِصْطَلَبْتُ رُكْبَتَهُ: چلنے میں گھٹنوں کا ایک دوسرے سے ٹکرانا "اِصْطَلَبْتُ الْقَوْمَ بِالشَّيْءِ" تلوار سے لڑنا۔

تَصَالَتِ الرُّكْبُ: زانو کار گڑھانا۔ الصَّلْبُ: چک۔ اقرار نامہ۔ جِ أَصْلٌ و صُكُوكٌ و صِيكَاكٌ۔

الأَصْلُ: چلنے میں گھٹنے اور ریزوں کو ٹکرانے والا۔ طے ہونے ڈاڑھ اور دانٹ والا۔ قوی۔ مَوْنَسٌ صَلْبٌ: ج صُلْبٌ۔

الصَّلْبَاكُ: زور سے لہمانچہ مارنے والا۔ چیک لکھنے والا۔ چیک کی حفاظت کرنے والا۔ الصَّيْكِيكُ: کمزور۔

المِصْلُ: مضبوط۔ جس سے دروازہ کو بند کیا جائے۔

المِصْلُوكَاتُ: دو اہم دو نام تیز۔ صَلْبَةُ (ان) صَلْبًا: مارنا۔ صَلْبُ الْفَرْسِ عَلَي لِحَاظِهِ: گھوڑے کا لگام کو چبانے۔ الصَّلْبَةُ: صدمہ شدیدہ۔

الصُّوَاكِمُ: مصائب۔ حوادث۔ کہا جاتا ہے "صَلْبَتُهُ و صُوَاكِمُ الذَّهْرِ" اس کے اوپر زمانہ کے مصیبتیں پڑیں۔

صَلْبٌ (ض) صَلْبًا: السَّلَاخُ: جھنکار ہونا۔ الشَّقِيُّ: آواز دینا۔ المِصْمَازُ: ٹھوٹکا جانا اور کسی چیز میں زبردستی داخل کرنا۔

الإِبْلُ: اونٹ کی آنتوں کا پیاس سے خشک ہونا جس سے پانی پیتے ہوئے آواز سنائی دے۔ السَّقَاةُ: منگ کا خشک ہونا۔

مِصْلُومٌ اللِّحْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ المَاءُ يَأْتِي كالتَّخْفِيرِ: ہونا۔

صَلْبٌ (ن) صَلْبًا: الشَّرَابُ: صاف کرنا۔ الحَبُّ المِخْطَلَطُ بالشَّرَابِ: پانی ڈال کر دانہ کو مٹی سے جدا کرنا۔ الخُفُّ:

چری موزہ پر استر لگانا۔ کہا جاتا ہے "صَلَبْتُهُمُ الصَّلَاةَ" یعنی ان کو مصیبت لاحق ہو گئی۔

أَصْلُ اللَّحْمِ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ اِقْدَمَ المَاءُ: دیر تک ٹھہرنے سے پانی کو خنجر کر دینا۔

الصَّلْبُ: گوشت وغیرہ جو خنجر ہو جائے۔ الصَّلْبُ: غصیب قسم کا سانپ۔ مصیبت۔ ہمسر۔ کہا جاتا ہے "هَذَا صِلٌ ذَاكٌ" یعنی اس کے مماش ہے۔ تلوار۔ جِ أَصْلَالٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ صِلٌ أَصْلَالٌ" یعنی وہ بڑا مکار غصیب ہے۔

الصِّلُ وَالصَّلُ وَالصَّلَّةُ: تھوڑی متفرق بارش۔

الصَّلَّةُ: وباغت سے پہلے خشک چھڑا بدبودار چھڑا۔ جوتا۔ چوتڑ۔ شدید بارش۔ تازہ گھاس کے متفرق ٹکڑے۔ ترمٹی۔

الصَّلَّةُ: بدبودار ہوا۔ بلیہ پانی۔ الصَّلَاةُ: مصیبت۔

الصَّلَاةُ: چری موزے کا استر۔ جِ أَصِلَّةٌ: صَلَاةُ الحَبِّ: غلے کا کوڑا کرکٹ۔

الصَّلِيلُ: جھنکاروہے کی یا تلوار کی۔ الصَّلَالُ و المِصْلَالُ: مِنَ الطَّيْنِ: خشک مٹی جو لوہے کی مانند آواز دے۔ مَاءٌ صَلَالٌ: خنجر پانی۔ الصَّلِيَانُ: ایک قسم کی نباتات۔ واحد صَلِيَانَةٌ۔

المُصَلِّلُ: سردار۔ شریف۔ خالص اللب۔ کثیر بارش۔

صَلْبَةٌ (ن ض) صَلْبًا: سولی دینا۔ اللَّحْمُ: گوشت بھوننا۔ العِظَامُ: ہڈیوں سے گودا نکالنا۔ صَلْبَتُهُ الشَّمْسُ: آفتاب کا جھل دینا۔ صَلْبَتٌ عَلَيْهِ الحُمَّى: بخار کا بھروسہ اور تیز رہنا۔

صَلْبٌ (ك س) صَلَابَةٌ: سخت ہونا۔ عَلَي الصَّالِي: بھل کرنا۔

صَلْبٌ الشَّقِيُّ: سخت کرنا۔ الشَّقِيُّ: سخت ہونا اور خشک ہونا۔ اللِّصُّ: چور کو سولی دینا۔

المِصْبِيحِي: ہاتھ سے صلیب کا نشان بنانا۔ أَصْلَبْتُ: النَّاظَةُ: بچہ کو دودھ پلاتے ہوئے اونٹنی کا پی گرون کو آسمان کی طرف اٹھانا۔

تَصَلَّبَتْ: سخت ہونا۔

إِصْطَلَبَ العِظَامَ: ہڈیوں سے گودا نکالنا۔

الصَّلْبُ: ریزہ کی ہڈی۔ چربی۔ گودا۔ سخت زمین۔ جِ صَلْبَةٌ و أَصْلَابٌ: ان زمینوں کو جو ایک زمانے سے جوتی نہ گئی ہوں ان کے لئے کہتے ہیں۔ "إِنَّهَا أَصْلَابٌ مُثَلِّدَةٌ أَعْوَامٌ"

الصَّلْبُ: سخت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صَلْبٌ فَنِي دُنْيَاهُ" وہ اپنے دین میں سخت ہے۔ "زَاعَ صَلْبُ القِصَا" جبکہ اونٹوں پر سختی کرتا ہو۔ ریزہ کی ہڈی۔ جِ أَصْلَابٌ و أَصْلَبٌ و صَلْبَةٌ اور کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ صَلْبِ فُلَانٍ" یعنی فلاں کی نسل اور اولاد سے ہے۔

الصَّلْبُ: قوت۔ حسب۔ سخت۔ چھری جگہ۔ جِ صَلْبَةٌ: الصَّلْبُ: ایک پرندہ ہے۔

الصَّلَابُ: قا۔ خُصِي صَلَابٌ: تیز بخار جس میں کپکپی بھی ہو۔

الصَّلَابُ و الصَّلَابُ: ریزہ کی ہڈی۔ الصَّلْبُ: سخت۔ سان رکھنے کا پتھر۔ ریزہ کی ہڈی۔

الصَّلْبَةُ: سان رکھنے کا پتھر۔ الصَّلْبِي: سخت۔ جس سے سان رکھا جائے۔

بِسَانَ صَلْبِي: تیز نیزے۔ الصَّلْبِيَّةُ: بمعنی صَلْبِي۔ تا مبالغہ کے لئے ہے۔

الصَّلْبِيبُ: وہ گھڑی جس پر بیسائیوں کے گمان کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ ﷺ کو سولی دی گئی۔ ہر وہ جو دو خط کی شکل پر ہو جو آپس میں تقاطع کرتے ہوں جس پر سولی دی جائے۔ جِ صَلْبِيَانٌ و صَلْبُ: قوی۔ سولی دیا ہوا۔ چربی۔ گودا۔

کہا جاتا ہے "اسْتَخْرَجَ صَلْبِيْبَ العِظَامِ" یعنی ہڈی کا گودا نکال لیا۔ جھنڈا۔ لَدَى صَلْبِيْبِ عَلِي الزُّوْرَاءِ مَنْصُوبٌ: اونٹ کا داغ۔ جِ صَلْبُ: خالص نسب والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَرَبِي صَلْبِيْبٌ" وہ خالص عربی ہے۔ "ذُو الصَّلْبِيْبِ"

لقب ہے "الاخطل نصرانی شاعر کا۔"

الصَّلْبِيْبِي: واحد الصَّلْبِيْبِيَّةُ: کا۔ یہ ایک قوم یورپ کی تھی جس نے بیت المقدس پر غلبہ

حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کی تھی اور ان کا نام یہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ انہوں نے اپنے جھنڈوں پر اور اپنے لباس پر صلیب کا نشان بنا رکھا تھا۔

بَعِيْرٌ مُضَلَّتْ وَمَضْلُوْبٌ: جس پر صلیب جیسا داغ ہو۔ مَوْنَتْ مُضَلَّبَةٌ وَ مَضْلُوْبَةٌ مِسَانٌ مُضَلَّتْ تیزیزے۔ شَيْءٌ مُضَلَّتْ عَلَيْهِ: جس پر صلیب جیسا نشان ہو۔ تَوْبٌ مُضَلَّبٌ: جس کو کپڑے پر صلیب کا نشان ہو۔

صَلَّتْ (ن) صَلَّاتًا: الفَرَسُ: گھوڑے کو ایزد بارنا۔

صَلَّتْ (ك) صَلْوَتَةً: الرَّجُلُ: کشادہ پیشانی والا ہونا۔

أَصَلَّتْ: السَّيْفُ: تلوار سونٹنا۔

أَبْصَلَّتْ: فِي عَدُوِّهِ: دوڑ میں آگے نکل جانا۔
الصَّلْتُ: کشادہ ہموار اُبھری ہوئی پیشانی، کہا جاتا ہے "جَبِيْنٌ صَلَّتْ" کشادہ پیشانی۔

الصَّلْتُ وَالصَّلْتُ: بڑی چھری۔ جِ اصْلَاتٌ۔

الصَّلْتُ وَالصَّلْتَانُ وَالْإِصْلِيْنْتُ وَالْأَصْلِيْنْتُ وَالْإِصْلَاتُ وَالْمِصْلَتُ وَالْمِصْلَاتُ وَالْمَنْصِلَتُ: مِنَ الرَّجَالِ: ہمدار آدمی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ مَضَالِيْبِ الرَّجَالِ" وہ ہمدار آدمیوں میں سے ہے۔ الصَّلْتُ وَالْإِصْلِيْنْتُ وَالْمَنْصِلَتُ مِنَ السُّيُوفِ: مچھل شدہ تیز تلوار۔

المُضَالَّةُ: باہم دگر تلوار بازی کرنا۔ شاعر کا کسی دوسرے کے شعر کو تلفظ و معنی لے لینا اور یہ سرقات شعر میں قبیح ترین ہے۔

صَلَّحَ (ن) صَلَّحًا: الْفِيْضَةُ: چاندی پگھلانا۔ صَلَّحَهُ بِالْعَصَا: لاٹھی سے مارنا۔

صَلَّحَ (س) صَلَّحًا: سَمَعُهُ: ہیرا ہونا۔

تَصَالِحُ: الرَّجُلُ: ہیرا ہونا۔

الصَّلْحُ: کھرے درویش۔

الصَّلْحَةُ: ریشم کے کیڑے کا خول۔ جِ صَلَّحٌ: الصَّلْحَةُ: پگھلی ہوئی صاف خالص چاندی کا ٹکڑا۔

الصَّلْوَجَانُ وَالصَّلْوَجَانَةُ: ٹیڑھے سرے

کی لاٹھی۔ جِ صَوَّالِحَةٌ:

الصَّلْوَجُ: خالص چاندی۔ کان کا سوراخ۔ ٹیڑھی لکڑی۔

الْأَصْلَجُ: سخت پختا۔ ہیرا۔

صَلَّحَ (ك ف ن) صَلَّحًا وَ طَلُوْحًا وَ صَلَّحِيَّةً: درست ہونا۔ فساد کا رائل ہونا۔ کہا جاتا ہے "صَلَّحَتْ خَالُ فُلَانٍ" فلاں کا حال درست ہو گیا۔ الرَّجُلُ: ٹیک ہونا۔ لُحِي: لُحِي عَمَلِهِ: کام میں درست ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا يَصْلُحُ لَكَ صَلَّاحًا" یعنی تمہارے موافق ہے۔ تمہارے لائق ہے۔

صَالِحُهُ صَلَّاحًا وَ مُصَالِحَةً: موافق ہونا۔ صلح کرنا۔

أَصْلَحَ: الشَّيْءُ: درست کرنا۔ يَبِيْتُهُمْ: صلح کرنا۔ إِلَيْهِ: اچھا کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَصْلَحَ اللَّهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ وَمَالِهِ"۔

تَصَالِحُ وَاصْطَلَحَ وَاصْطَلَحَ وَاصْطَلَحَ: الْقَوْمُ: رضامند ہونا۔

اسْتَصْلَحَ: الشَّيْءُ: درست کرنا۔

الصَّلْحُ: سلامتی۔ درستی۔ مصالحت کا اسم ہے (فکر و مونت) کہا جاتا ہے "هُمُ لَنَا صَلْحٌ" یعنی صلح کرنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے "قَوْمٌ صَلْوَحٌ" یعنی رضامند ہیں۔ مصدر کے ساتھ وصف بیان کیا گیا ہے۔

الصَّلَّاحِيَّةُ: وہ حالت جس سے کوئی چیز درست ہو۔

الإِصْطِلَاحُ: عرف خاص۔ یعنی کسی جماعت خاص کا کسی چیز پر یا کسی کلمہ کے وضع پر اتفاق کر لینا۔ جِ اصْطِلَاحَاتٌ۔

الصَّلَاحُ: ٹیک۔ ٹھیک۔ درست۔ حقوق و واجبات کا پورا کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صَالِحٌ بِكَذَا" یعنی اس کے اندر فلاں کام کی اہلیت و قابلیت ہے اور بسا اوقات کثیر سے کنا یہ کرتے ہیں۔

کتنے ہیں "لَهُ حَقٌّ صَالِحٌ مِنَ الْأَدَبِ" یعنی اس کیلئے ادب کا حصہ کثیر ہے۔ جِ صَالِحُونَ وَ صَالِحٌ: الصَّالِحَةُ: مَوْنَتْ صَالِحٌ: کہا جاتا ہے "أَتَيْتَنِي صَالِحَةً مِنْ فُلَانٍ" یعنی فلاں کی طرف

سے مجھے بہت نعمت یا بڑی بھلائی پہنچی۔

الصَّلِيْحُ: بمعنی صَالِحُ۔ جِ صَلَّحَاءُ:

المُضَلَّحَةُ: جو صلح پر برا لگتی کرے۔ نیکی۔ جِ مَصَالِحُ: کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَقْاصِدِ لَا الْمَصَالِحِ"۔

صَلَّحَ (س) صَلَّحًا: سَمَعُهُ: سخت ہیرا ہونا۔ تَصَالِحُ: ہیرا ہونا۔

إِصْلَحُ: لیٹنا۔

الصَّلَاحُ: بمعنی الصَّالِحُ یعنی خارش۔ کہا جاتا ہے "جَزِبْتُ صَالِحًا وَ مَسَالِحًا" کا لاساپ۔

الْأَصْلَحُ: بہت ہیرا۔ مِنْ الْجَمَالِ: خارشِ

أَوْتٌ: مَوْنَتْ صَلَّحَاءُ: جِ صَلَّحٌ: خارش۔ ہیرا پن۔ خارش۔ وَاهِيَةٌ صَلْوُحٌ: ہلاک کرنے والی مصیبت۔

إِصْلَحًا: سیدھا کھڑا ہونا۔

الصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ: قوی ذہن۔ دلیر۔ جِ صَلَّاحِدِي:

الصَّلْحَدِمُ: مِنَ الْإِبِلِ: قوی اونٹ۔

صَلَّدَ (ض) صَلَّدًا: الزَّنْدُ: پتھماق کا بغیر آگ نکلے ہوئے آواز کرنا۔ صَلَّدَتِ الْأَرْضُ: زمین کا سخت ہونا۔ صَلَّفَعَهُ: سر کے کٹج کا چمکانا۔

صَلَّدَتِ (ض) صَلَّدًا: الذَّابَةُ: جانور کا کھڑا ہونا۔ دوڑنے میں پاؤں کو زمین پر مارنا۔

الرَّجُلُ فِي الْعَجَبِ: ہزار پر چڑھنا۔ صَلَّدَ السَّائِلُ: کچھ نہ دینا۔ يَبْدِيْهِ: تالی جانا۔

صَلَّدَ (ك) صَلَّدَةً وَ صَلَّدَ تَصْلِيْدًا: بچل کرنا۔

أَصَلَّدَ: الزَّنْدُ: بغیر آگ نکلنے کے پتھماق کا آواز کرنا۔ أَصَلَّدَتِ الْأَرْضُ: سخت ہونا۔

أَصَلَّدَ الزَّنْدُ: بغیر آگ کے پتھماق سے آواز نکلتا۔

الصلدُ: ٹھوس۔ پختا۔ وہ زمین جس میں کچھ نہ آگے۔ کہا جاتا ہے "أَرْضٌ صَلْدَةٌ وَمَكَانٌ صَلْدٌ" جِ أَصْلَادُ فَرَسٍ صَلْدٌ: وہ گھوڑا جس کو بوسینہ نہ آئے اور یہ صفت مذمومہ ہے۔ زَامِسٌ صَلْدٌ: جس سر پر بال نہ نکلیں۔ جَبِيْنٌ صَلْدٌ: سخت

پیشانی۔ رَجُلٌ صَلْدٌ: بخل مرد۔
الاصْلَدُ۔ بخل۔ مؤنث صِلْدَاءُ ج صِلْدٌ۔
الصّالِدُ۔ فا۔ وہ پتھماں جس میں آگ نہ لگے۔
الصّالِدَةُ۔ مؤنث صالدا کا دانت جس کے
پینے میں آواز نہ لگے۔ ج صَوَالِدُ۔
الصلوْدُ۔ آگ نہ دینے والا پتھماں۔ ٹھوس۔
اکیلا۔ بہت بخل۔ خُكٌ۔ قُرُوشٌ صِلْوُدٌ: وہ گھوڑا
جس کو در میں بیسہ آئے۔ قِدْرٌ صِلْوُدٌ: وہ ہانڈی
جسے در میں جوش آئے۔ اِمْرَاةٌ صِلْوُدٌ: بے
برکت عورت۔

الصلوْدُودُ۔ ٹھوس چکنا۔

الصليْدُ۔ اکیلا۔

عَوْدٌ صِلَادٌ و مِصْلَادٌ۔ نہ سلنے والی لکڑی۔
نَاقَةٌ مِصْلَادَةٌ: بے دودھ کے بچے والی اونٹنی۔
الصِئْدَاءُ و الصِئْدَاءَةُ۔ سخت ٹھوس زمین۔
الصِّلْدَحُ۔ چوڑا پتھر۔

الصِّلْوُدُجُ۔ سخت قوی۔

الصليْدِمُ۔ ٹھوس۔ سخت کمر۔ ثَيْرٌ ج صِلَادِمٌ۔
الصِّلْوُرُ۔ ایک قسم کی مچھلی۔

صَلَّصَلٌ صَلَّصَلَةُ الخُلِيِّ او اللِّجَامِ: زیور
یا لگام سے آواز لگتا۔ الزُعْدُ: صاف
گر جتا۔ الجُرْسُ: آواز کو دہراتا۔ فَلَانًا:
دھمکی دینا۔

تَصَلَّصَلٌ اللِّجَامِ او الخُلِيِّ: لگام یا زیور
سے آواز لگتا۔

الصِّلْصَلُ۔ گھوڑے کی پیشانی۔ گھوڑے کی
پہیچے کی سفید جگہ۔ چھوٹا پیالہ۔ برتن میں بقیہ پانی یا
ادر کوئی چیز ماہر ج واپا۔ فَاخْتَدَ۔

الصِّلْصَالُ۔ کھلکانے والی خشک مٹی (۔
و الصِّلْصَالُ و المِصْلِصَلُ) آواز دینے والا
گدھا۔

الصِّلْصَالَةُ زمین جس میں کوئی نہ ہو۔

المِصْلِصَلُ۔ مصدر میسی۔ خالص التنب۔

شریف سردار۔

إِصْلَنْطَحَتِ البَطْحَاءُ: کشادہ ہونا۔

الصِّلْطَاحُ و المِصْلَنْطَحُ۔ چوڑا کشادہ۔

صَلِجٌ (س) صَلَّجًا سر کے اگلے حصے کے بالوں

کا گر جانا۔ صفت أَصْلَجٌ ج صَلِجٌ و صَلَّعَانٌ کما

جاتا ہے "صَلِغَتِ الشَّجَرَةُ" یعنی ٹہنیوں کے
پتے گر گئے۔

صَلَّغَتْ و تَصَلَّغَتْ و انصَلَّغَتْ الشَّمْسُ:
آفتاب کا بادل سے نکل آنا۔ الخَيْثَةُ۔ سانپ
کا صاف ستھرا بغیر مٹی کے لگنا۔ تَصَلَّغَتْ
السَّمَاءُ: بادل کا چھٹ جانا۔

صَلَغَ الشَّمْسُ: آفتاب کی گرمی۔
الصَّلْعَةُ و الصَّلْعَةُ۔ سر کا وہ حصہ جہاں سے بال
گر گئے ہوں۔

الصَّلْعَاءُ۔ أَصْلَجٌ کا مؤنث۔ خالی بیابان۔
معیبت۔ زَمَلَةٌ صَلْعَاءٌ: بغیر درخت کے ریتلا
میدان۔ ج صَلْعٌ۔

الصَّلْعُ و الصَّلِيعُ و الصَّلَاعُ۔ چوڑا پتھر۔
مِنَ الامْكِنَةِ: بجز زمین۔ زاش صَلِيعٌ: سر
جس کے اگلے حصے کے بال گر گئے ہوں۔

صَلَّعَ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا انحصار۔

صَلِيفٌ (س) صَلْفًا۔ ڈیگ مارنا۔ صفت
صَلِفٌ ج صَلْفُونَ صَلْفَاءٌ و صَلْفَافٌ _____
لِصَاحِبِهِ: غیر پسندیدہ باتیں کرنا۔ المَزَاةُ

عِنْدَ رُوْحَيْهَا: شوہر کے نزدیک بے وقعت ہونا۔

صفت صَلْفَةٌ۔ ج صَلْفَاتٌ و صَلْفَائِفٌ _____

السَّخَابُ: زیادہ گر جانا اور پانی کی برسات۔

أَصْلَفٌ۔ بے برکت ہونا۔ گراں جان ہونا۔

فَلَانًا: بغض رکھنا۔

تَصَلَّفَ۔ بہ کلف ڈیگ مارنا۔ چالوسی کرنا

القَوْمُ: سخت زمین میں پڑنا۔

الصِّلْفُ۔ درخت خرما میں خالی ہونا۔ صَلْفَةٌ
واحد ہے۔

الصِّلْفُ۔ بے مزہ کھانا۔ بھاری برتن۔ اِنَاءٌ

صَلِيفٌ: کم پانی لینے والا برتن۔ سَخَابٌ صَلِيفٌ:

زیادہ گر ج اور کم پارش کا بادل۔ اَرْضٌ صَلِيفَةٌ:

زمین جس میں کچھ نہ آگے۔

الصِّلِيفُ۔ گردن کا پہلو۔ کما جاتا ہے "أَخَذَهُ

بِصِّلِيفِهِ" یعنی پورا لے لیا۔ "طَعَامٌ صَلِيفٌ"

بے مزہ کھانا۔

الأصْلَفُ۔ زمین کا وہ حصہ جو سخت ہو اور کچھ نہ

آگے۔ ج أَصْلَافٌ۔

الصِّلْفَاءُ و الصِّلْفَاءَةُ و الصِّلْفَاءَةُ

ق۔ زمین کا وہ حصہ جو سخت ہو اور کچھ نہ آگے۔ ج
الصِّلَافِي۔

المُصْلِفُ۔ بیوی کی بے قدری کرنے والا۔

صَلْفَعٌ۔ مفلس ہونا۔ زَامَةٌ۔ مونڈنا۔

صَلِقٌ (ن) صَلْفًا۔ الرُّجُلُ: معیبت میں بیچنا

چلانا۔ صَلْفَةٌ بِالْعِصَا: لاشعی سے مارنا۔ صَلْفَتُهُ

الشَّمْسُ: آفتاب کا گرمی سے تکلیف پہنچانا۔

صَلِقٌ (ن) صَلْفًا: ناہبہ۔ دانت پینا۔

أَصْلِقٌ۔ الرُّجُلُ: معیبت میں بیچنا چلانا۔

التَّابُ: دانت پیننے میں آواز نکالنا۔

تَصَلَّقَ۔ المَوْرِيضُ: دور کی وجہ سے مریض کا

مضطرب و بے چین ہونا۔ المَزَاةُ: دروزہ

میں چلتا ہونا۔

إِصْطَلَقَ التَّبَعِيَّةَ بِتَابِهِ: اونٹ کا دانت پینا۔

الصِّلَاقَةُ۔ پانی جو ایک جگہ میں دیر تک رہے۔

الصِّلِقُ۔ سخت آواز۔

الصِّلِقُ۔ ہموار زمین۔ ج أَصْلَاقٌ۔ ج

أَصْلَاقِي۔

الصِّلِيقُ۔ چکنا۔

الصِّلِيقَةُ۔ پکلی روٹی۔ چپاتی۔ گوشت کا بھنا ہوا

ککڑا۔ ج صَلَاقِي۔

المِصْلَقُ و المِصْلَاقُ۔ مِنَ الخَطْبَاءِ: لیخ

خُطِبَ ج مِصْلَاقِي و مِصْلَاقِي۔

المِصْلَاقِي۔ بڑے بڑے پتھر ہلکے ہلکے

اونٹ۔

صَلْفَعٌ۔ مفلس ہونا۔ زَامَةٌ: سر

مونڈنا۔

صَوْتُهُ: آواز تیز کرنا۔

الصِّلْفَعُ۔ خالی۔ کما جاتا ہے "مَكَانٌ صَلْفَعٌ

بَلْقَعٌ و صَلْفَعٌ بَلْقَعٌ" خالی مکان۔ بَلْقَعٌ و

بَلْقَعٌ صَلْفَعٌ و صَلْفَعٌ بَلْقَعٌ کے لیے تابع ہیں۔

الصِّلْفَعُ۔ مرد لاوارث ہونا۔

صَلَّمَ (ن ض) صَلَّمًا و صَلَّمٌ الشَّقُّ: بڑ

سے کانا۔ صَلْمَةٌ و صَلْمَةٌ بڑ سے ناک کا ن

کات لینا۔

إِصْطَلَمَتْهُ بڑ سے اکھیڑنا۔ کما جاتا ہے

"إِصْطَلَمَتْهُ الذَّهْرُ" یعنی زمانہ نے ان کو زیادہ کر

دیا۔

منعولی مصلیٰ — فَلَانَا النَّارَ وَ فِيهَا وَ
عَلَيْهَا: آگ میں داخل کرنا — الرَّجُلُ:
فربند بنا لینے: جال لگانا۔

صَلِي (س) صَلِي وَ صَلِيًا وَ صَلِيًا وَ صَلِيًا
النَّارَ وَ فِيهَا: آگ کی گرمی برداشت کرنا۔ آگ میں
جلنا — الْأَمْرُ وَ بِالْأَمْرِ: معاملہ کی شدت
برداشت کرنا۔

صَلِي — الْقَضَاعِلِي النَّارَ وَ بِالنَّارِ: آگ دکھلا
کر سیدھا کرنا۔ صَلِي وَ أَصْلِي يَدُهُ: ہاتھ گرم
کرنا۔

أَصْلَاهُ — النَّارَ: آگ میں داخل کرنا۔
قَضَلِي تَصَلِيًا — النَّارَ وَ بِالنَّارِ: آگ کی گرمی
برداشت کرنا۔ آگ تاپنا — عَصَاهُ عَلَى
النَّارِ: آگ دکھلانا۔

أَصْطَلِي أَصْطَلَاءً — بِالنَّارِ: آگ تاپنا۔ کہا جاتا
ہے "فَلَانٌ لَا يَصْطَلِي بِنَارِهِ" یعنی فلاں ایسا بہادر
ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

الصلاء والصلی۔ آگ یا بڑی آگ۔
ایندھن۔

الصلاة والصلوة۔ پیشانی۔ خوشبو۔ پینے کا
پتھر۔ ہر بڑا پتھر جس پر پیرا جائے۔ جِ صَلِي وَ صَلِيًا
الصلیان۔ ایک جنگلی گھاس۔ صَلِيَانَةٌ: واحد۔
المصلاة والمصلى۔ جال جو شکار کیلئے لگایا
جائے۔ جِ مَضَالٍ۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ لِلشَّيْطَانِ
لِيَخْتَا وَ مَضَالِي" کہ شیطان کے لیے بہت سے
پھندے اور جال ہیں۔

صَمَمٌ (ن) صَمَمًا — الْفَارُوزَةَ: شیشی بند کرنا
— الْجَزْخَ: زخم کو باندھنا اور لپ لگانا
— عَزَمَتَهُ: پکا ارادہ کرنا۔ صَمَمَ الرَّجُلُ
يَحْجُو: پتھر سے مارنا۔

صَمَمٌ (س) صَمَمًا وَ صَمَمًا: ہرا ہونا۔ صفت
أَصَمٌ مؤنث صَمَاءٌ جِ صَمَمٌ وَ صَمَّانٌ۔ صَمَمٌ
صَدَاهُ: اس کی آواز بھری ہو گئی یعنی مر گیا ہلاک
ہو گیا۔

صَمَمَةٌ: ہرا کر دینا۔ صَمَمَ عَلَى الْأَمْرِ وَ فِيهِ:
کر گزارنا اور منع کرنے والی بات نہ سنا
— السِّنْفُ: تلوار کا ہڈی میں گھسا اور کاٹ دینا۔
صَمَمَهُ الْخَلْدِيثُ: یاد کرانا۔ صَمَمَ الشَّمْسُ: دانت

سے کاٹنا۔
أَصَمٌ: ہرا ہونا۔ ہرا کرنا۔ ہرا پانا —
الْفَارُوزَةُ: شیشی بند کرنا۔ أَصَمَ دَعَاؤُهُ: ایسی
قوم کو پکارنا جو ہلاکت سے نہ جواب دے۔ أَصَمَ
اللَّهُ صَدَاهِي فَلَانَ: اللہ اسے ہلاک کر دے۔
تَصَامٌ عَنِ الْخَلْدِيثِ: ہرا ہونا۔
الصِمَمُ: سخت مصیبت۔ شیر۔
الصِمَّةُ: ہمار شیر۔ مذکر سانپ۔ مادہ سیسی۔
شیشی وغیرہ کی ڈاٹ۔ جِ صَمَمٌ۔
الصَّمَمُ: ہرا پن۔ رجل صمم: پختہ ارادہ
والا۔

صَمَامٌ: بروزن قطام۔ سخت مصیبت کے لیے
عَلَمٌ۔ کہتے ہیں "صَمَمٌ صَمَامٌ" اسے مصیبت
زیادہ ہو۔ "صَمَامٌ صَمَامٌ" بمعنی امر۔
الصَمَامُ: جِ أَصِمَةٌ: الصَّفَامَةُ۔ شیشی کی
ڈاٹ۔

الصميم ہڈی جس پر عموماً کادرا ہو۔ مین کُلِّي
شَيْءٍ: خالص — مِنَ الْحَزَنِ وَالْبُزْدِ: سخت
گرمی یا سردی۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ لِي صَمِيمٌ
النَّحْرِ" سخت گرمی میں گیا اور یہ واحد اور جمع
دونوں کیلئے مستعمل ہے۔ تم کو گے "رَجُلٌ
صَمِيمٌ" و "رَجُلَانِ صَمِيمٌ" مؤنث صَمِيمَةٌ۔
کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ صَمِيمِ الْقَوْمِ" یعنی قوم کا
اصل ہے۔

الْأَصَمُ: ٹھوس۔ کہا جاتا ہے "حَبَجُوا أَصَمًا وَ
صَخْرَةً صَمَاءً" بمعنی ٹھوس پتھر۔ زَمِعَ أَصَمٌ:
مضبوط نیزہ۔ رَجُلٌ أَصَمٌ: جس سے کسی خیر کی
امید نہ ہو اور اپنی خواہشات سے باز نہ رکھا جا
سکے۔ ذَهَبَ أَصَمٌ: زمانہ گویا کہ اس سے شکایت
کی جاتی ہے اور وہ سنتا نہیں۔ عرب رجب کے
مہینے کو شہرِ أَصَمٌ کہتے تھے اس وجہ سے کہ
اس مہینے میں نہ تو نکل و قال کی آواز آتی تھی اور
نہ ہتھیاروں کی جھکار سنائی دیتی تھی اور نہ کوئی
فریادی شور مچاتا تھا۔

الصَّمَاءُ: مؤنث أَصَمٌ: ٹھوس زمین۔ سخت
مصیبت۔ جِ صَمَمٌ۔
الصَّمَانَةُ وَالصَّمَانُ: ہر پتھر کی سخت زمین۔
المُصَمِّمُ: کر گزرنے والا۔ السِّنْفُ

الضلم والضلمة۔ مضبوط اور بہادر لوگ۔
واحد ضالمٌ۔
الضلمة۔ خور۔
الضلالة والضلالة والضلالة۔ آدمیوں
کی جماعت۔ سخاوت میں بہادری میں اور عمر میں
ایک قسم کے لوگ۔ جِ ضَلَامَاتٌ ضَلَامَاتٌ
ضَلَامَاتٌ۔
رَجُلٌ أَصْلَمُ الْأَذْنَيْنِ: وہ شخص جس کے
دونوں کان کئے ہوئے ہوں گویا کہ خلقتاً ایسے ہی
ہیں۔ مؤنث ضَلَمَاءٌ جِ ضَلْمٌ۔
الضلم۔ تلوار۔ سخت کام۔ مصیبت۔ دن میں
ایک مرتبہ کا کھانا۔ وَقَعَةُ ضَلِيمَةٌ: جڑ مارنے
والی جنگ۔
ضَلَمَعٌ: مفلس ہونا — الرَّائِسُ: مؤنث
دینا — الشئ: اٹھڑ دینا۔ چکنا کر دینا۔ کہا جاتا
ہے "هُوَ ضَلَمَعَةٌ قَلَمَعَةٌ" یعنی وہ اور اس کے
بہن بھائی معروف ہیں۔
إِضْلَهَبٌ: دراز ہونا۔
الضلهب والمضلهب۔ لبا آدمی۔
الضلهب: بڑا مکان۔
الضلهج: بڑی چٹان۔ قوی اونٹنی۔
إِضْلَهَبٌ: سخت ہونا۔
الضلهام: دلیر۔ شیر۔
صَلَا يَصْلُو صَلْوًا، فَلَانًا: پیٹھ کے درمیان
مارنا۔
صَلِيَتْ تَصْلِي صَلَا وَ أَصَلَتْ إِضْلَاءً۔
التاقفة: ترقب ولادت کی وجہ سے اونٹنی کے ڈبر
اور ڈم کے درمیان کا ڈھیل پڑ جانا۔
صَلِي صَلَاةً: دعا کرنا۔ نماز پڑھنا۔ اللَّهُ عَلَيْهِ:
برکت دینا۔ اچھی تعریف کرنا (— تَصْلِيَةً)
الْفَرَسُ: گھوڑا دوڑ میں دوسرے نمبر پر ہونا۔
صفت مُصَلِيٌ۔
الصلوة۔ انسان اور چوپایہ کی پیٹھ کا درمیانی
حصہ۔ جِ صَلَوَاتٌ وَأَصْلَاءٌ۔
الصلوة والصلوة۔ دعا۔ نماز۔ جمع —
مِنَ اللَّهِ: رحمت۔ جِ صَلَوَاتٌ۔
المصلى۔ نماز پڑھنے کی جگہ۔
صَلِي صَلِيًا — اللَّحْمُ: گوشت بھونا۔ صفت

المُصَمِّمِ بڑی میں گھس جانے والی تلوار۔
صَمًا (ف) صَمًا عَلَيْنِهِمْ: برآمد ہونا۔ ظاہر ہونا۔ فَلَانًا عَلَي الْأَمْرِ: براگینتہ کرتا۔
صَمَّتْ (ن) صَمَّتًا وَصُمُوتًا وَصَمَاتًا۔ خاموش رہنا۔
صَمَّتْ وَأَصَمَّتْ۔ خاموش رہنا۔ صَمَّتَتْهُ وَأَصَمَّتَتْهُ۔ خاموش کرنا۔ وَأَصَمَّتْ الْعَيْنُ: بیکار کی زبان بند ہو جانا۔ صَمَّتَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا: عورت کا اپنے بچے کو بہلانے کے لیے کچھ کھلانا۔
الصَّمَاتُ۔ خاموشی۔ پیاس کی سرعت۔ کہا جاتا ہے "زَمَاهُ بِصَمَاتِهِ وَشَكَايَتِهِ" یعنی چپ کر دیا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَى صَمَاتِ الْأَمْرِ أَوْ بِصَمَاتِهِ" وہ کام کرنے کو مستعد و تیار ہے۔ "بَاتَ مِنَ الْقَوْمِ عَلَى صَمَاتٍ" قوم سے قریب ہوا۔
الصَّفِيئَةُ وَالصَّفِيئَةُ۔ کھانا یا مٹائی وغیرہ جس سے بچے کو ہلایا جائے اور چپ کرایا جائے۔
الصَّمَاتُ۔ فا۔ خاموش۔ گاڑھا دوڑھ۔
مِنَ الْعَالِ: چاندی سونا (مال باطل حیوانات ہیں) کہا جاتا ہے "مَالُهُ نَاطِقٌ وَلَا صَامِتٌ" یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔
الصَّمِيئَتِ وَالصَّمُوتِ۔ بہت خاموش رہنے والا۔
الصَّمُوتُ۔ بھاری زرہ۔ شہد سے بھرا ہوا۔
چھت۔ حَمْرِيَّةٌ صَمُوتٌ: پار ہو جانے والی ضرب۔
المُصَمِّمِ۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ يَشْكُرُ الْغَيْبِ مُصَمِّمٌ" یعنی ایسے شخص سے شکایت کر رہا ہے جو اس کی پروا نہیں کرتا۔
المُصَمِّمُ۔ ٹھوس۔ بَاتَ مُصَمِّمٌ: بند دروازہ جس کے بند ہونے کی جگہ معلوم نہ ہو۔
حَائِظٌ مُصَمِّمٌ: جس دیوار میں فرج نہ ہو۔
فَوْسٌ مُصَمِّمٌ: جس گھوڑے کے رنگ میں کوئی دوسرا رنگ نہ ہو۔ اُنَاةٌ مُصَمِّمَةٌ: جس پر چاندی کی قلمی نہ ہو۔ أَلْفٌ مُصَمِّمَةٌ وَمُصَمِّمٌ: کال ایک ہزار۔
صَمْحَةٌ (ف ض) صَمْحًا الْحَرُّ: گرمی کا دماغ کو پھلادینا۔ ةٌ بِالسُّوْطِ: کوڑے سے

مارنا۔ صَمَحَ فَلَانًا: سوال کرنے میں سختی کرتا۔
الصَّمْحُ۔ بدودار پلینہ۔ داغ لگانا۔ چربی جو پکھلا کر پیر کی پھن میں لگائی جائے۔
الْأَصْمَحُ۔ ہمداروں کے سر پر ضرب لگانے والا۔
يَوْمٌ صَامِعٌ وَصَمُوحٌ۔ سخت گرم دن۔ حَائِظٌ صَمُوحٌ: سخت کھر۔
الصَّمْحَاءُ وَالصَّمْحَاءَةُ۔ سخت زمین۔
صَمْحَةٌ (ن) صَمْحًا۔ کان کے سوراخ پر مارنا۔
صَمَحَ أَنْفُهُ: ناک توڑ دینا۔
الصَمْحُ۔ خشک چیز جو کبڑوں کے تھن کے سوراخ میں پچے پھنے کے وقت ہوتی ہے کہ اس کے نکل جانے کے بعد دوڑھ اچھی طرح آنے لگتا ہے۔ مار کاشان جو چرے پر پڑ جائے۔
الصَمْحُ۔ کان کا سوراخ۔ ج صَمْحُ وَأَصْمَحَةٌ۔
الْأَصْمُوحُ۔ کان کا سوراخ۔ کہتے ہیں "صَرَبَ اللَّهُ عَلَى صَمَائِحِهِ" یعنی اللہ اسے سلاڑے۔
الصَّمْحُ۔ کہ پانی کانوں۔ ج صَمْحُ إِصْمَحَتْ غَمَّتْ سے پھول جانا۔
صَمَدٌ (ن ض) صَمَدًا وَصَمَدًا. فَلَانًا وَلَهُ وَالْيَهُ: تصد کرتا۔ ارادہ کرتا۔ کہا جاتا ہے "صَمَدٌ صَمَدٌ هَذَا الْأَمْرُ" یعنی اس امر پر اعتماد کیا۔
ه بِالْعَصَاءِ لِأَخِي سَ مَارًا. صَمَدَتِ الشَّمْسُ وَجَهَةٌ: آفتاب کا چہرے کو جھلس دینا۔ صَمَدٌ الْقَارُورَةُ: شیشی میں ذات لگایا۔ صَمَدُ الرَّجُلِ زَاةٌ: مرد کا اپنے سر پر بند پلینا۔
صَامِدَةٌ صَمَادٌ أَوْ مَصَامِدَةٌ. تلوار بازی کرتا۔
أَصَمَدٌ. إِلَيْهِ الْأَمْرُ: سارا دینا۔
نَصَمَدٌ. لَهُ بِالْعَصَاءِ: لاناھی سے مارنا۔
الصَّمَدُ. بلند جگہ۔ ج أَصْمَادٌ وَصَمَادٌ. الصَّمَدُ. سردار جس کے بغیر امور پورے نہ ہوں۔ ٹھوس۔ ایسا شخص جو لڑائی میں بھوکا یا ساند ہو۔ پیشہ رہنے والا۔ بلند۔ اور صمد۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے یعنی وہ ذات جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی محتاج نہ ہو۔
الصَّمَدَةُ وَالصَّمَدَةُ. بلند گڑھی ہوئی چٹان۔
الصَّمَادُ. شیشی کی ذات۔

المُصَادِ وَالصَّمَادَةُ۔ گڑھی کے علاوہ سر پر لپٹنے کا پیرا۔
المُصَمِّدُ وَالصَّمَادُ. تصد کیا جائے۔
صَمَدٌ ح. التَّوْمُ: دن کا بہت گرم ہونا۔
الصَّمَادُ وَالصَّمَادُ ح. بہت سخت چیز کا خالص۔
الصَّمَادُ ح. کھلا ہوا راستہ: شیر۔
الصَّمِيدُ ح. بہت سخت گرم دن۔
صَمَرٌ (ن) صَمَرًا وَصَمُورًا. بخیل ہونا۔
ماءٌ: پانی کا آہستہ آہستہ نشیبی زمین سے ہموار زمین کی طرف بہنا۔
صَمَرٌ (ض) صَمَرًا وَصَمِيرٌ (س) صَمَرًا. اللَّيْنُ: کھلنا ہونا۔
أَصَمَرٌ. اللَّيْنُ: زیادہ کھلا ہونا۔
صَمَرٌ الرَّجُلُ: کھل کرنا۔ غروب آفتاب کے وقت آنا۔ أَصَمَرٌ وَصَمَرٌ الخَمَاعُ: جمع کرنا۔
الصَّمَرُ: تازہ مٹک کی خوشبو۔
وَالصَّمَرُ بَدْوٌ۔
الصَّمَرُ. آہستہ آہستہ پانی بننے والے کے جمع ہونے کی جگہ۔
الصَّمَرُ. برتن وغیرہ کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "مَلَأَ الْكَاسَ إِلَى أَصْمَارِهَا أَوْ أَصْبَارِهَا" یعنی پیالے کو اس کے کناروں تک بھر دیا۔
الصَّمَرُ. بدودار۔ کہا جاتا ہے "يَدِينُ مِنَ السَّمَكِ صَمِيرَةً" یعنی میرا ہاتھ چھلی کی وجہ سے بدودار ہے۔
الصَّمِيرُ: بخیل۔ ج صَمِيرُونَ۔
الصَّمِيرُ. دہلا پٹا خشک آدمی جس سے پینت کی بدبو پھیلے۔
الصَّمِيرُ. آفتاب کے غروب ہونے کا وقت۔
الصَّمِيرَةُ وَالصَّمِيرَةُ. کھادوڑھ۔
صَمَمٌ صَمَمًا. فِي الْأَمْرِ أَوْ السَّمِيرِ. اشتغال سے کام جاری رکھنا۔ صَمَمْتُ الصَّمَامُ وَالصَّمَامُ. تلوار جس کی دھار نہ مڑے۔
الصَّمَامُ وَالصَّمَامُ وَالصَّمَامَةُ۔

مِنَ الْعَجَلِ: چلنے میں ثابت قدم گھوڑا۔

الصَّنْفِصِم: چھوٹا سونا۔

الصَّنْفِصِم: بہت زیادہ بخیل۔

الصَّنْفِصَمَہ وَالصَّنْفِصِمَہ: قوم میں اچھا آدمی۔ لوگوں کی جماعت۔ ج صَنْصِم و صَمَاصِم۔

صَمَّعَ (ف) صَمَّغًا: بِالْعَصَا أَوْ التَّيْفِ: لاشھی یا تلوار سے مارنا۔ الظَّنِّي: زمین کے اندر چل دینا۔

صَمَّعَ (س) صَمَّغًا: لاپرواہی سے گزر جانا۔ فِي الْكَلَامِ: غلطی کرنا۔ صَمَّعَتْ أذُنُهُ: کان کا چھوٹا ہونا اور سر سے چپٹا ہوا ہونا۔ صَمَّعَتْ أَصْفَحَ مَوْتِ صَمَّغَاءَ: ج صَمَّعَ۔

صَمَّعَ عَلَيَّ رَأْيَهُ: بہت ارادہ کرتا۔

إِنصَمَّعَ فِي عَضْبِهِ: غضب پر قائم رہنا۔

الأَصْفَعُ: چھوٹے کان والا۔ مَوْتِ صَمَّغَاءَ: ج صَمَّعَ۔

ن صَمَّعَ: اور چڑھنے والا۔ تلوار کا طبع۔

تیز ذہن والا۔ روستی کی کہ جس کا پھل ابھی غلاف

سے نہ نکلا ہو۔ عمدہ پر۔ ج صَمَّعَانُ: أَصْمَعَانُ:

قلب زکی و پختہ رائے۔

الصَّمِيعُ: زکی القلب۔ تیز فہم والا۔ بہادر۔

صَمَّعَ: گوند لگانا۔

أَصْمَعُ الشَّدْقُ: باپوں کا زیادہ تھوک والی

ہونا۔ أَصْمَعَتِ الشَّجَرَةُ: درخت کا گوند والا

ہوتا۔

إِنصَمَّعَ الشَّجَرَةُ: گوند لگانا۔

فَلَانٌ زَخْمٌ هَوَانُ۔

الصَّمْغُ وَالصَّمْغُ: گوند۔ واحد صَمَّغَةٌ و

صَمَّغَةٌ: ج صَمَّوْغٌ۔

الصَّمْغُ وَالصَّمَّغَةُ: تھن کے اندر ولادت

کے بعد کوئی محمد چیز ہوتی ہے۔

الصَّمَّغَانُ: وہ شخص جس کے کان 'ناک' منہ

سے مادہ نکلے جس طرح درخت سے گوند نکلتا

ہے۔

الصَّمَّغَانُ وَالصَّمَّغَتَانُ وَالصَّمَّغَانِ

وَالصَّمَّغَاتَانُ: باپیں۔

أَصْمَقُ: النَّبَابُ: دروازہ بند کرنا۔

اللَّبْنُ أَوْ المَاءُ: خنجر ہونا 'بگڑ جانا'۔

الرَّجُلُ خَيْثٌ هَوَانُ۔

الصَّمَّغَةُ: بگڑا ہوا دروازہ۔

صَمَّغَرٌ وَاصْمَقَرٌ: اللَّبْنُ: بہت کھٹا ہونا۔

إصْمَقَرَتِ السَّمْسُ: بہت گرم ہونا۔

إصْتَاكَ الرَّجُلُ: نَفْسِيَاكٌ هَوَانُ۔

اللَّبْنُ: جَمٌّ: خَيْرٌ جَسَدٌ: جَمٌّ: الأَرْضُ:

بارش سے تر ہونا۔ اِسْمَخُ: زخم کا پھولنا۔

الصَّمَّكُوكُ وَالصَّمَّكِيكُ: شرد نسا کی

طرف بہت کرنے والا۔ اِبْرِيْلُ: سخت مضبوط۔ بہت

سخت دل۔ لیس دار چیز۔

صَمَّعَلٌ (ن) صَمَّغَلٌ وَصَمَّوْغٌ: الشَّيْءُ: سخت

ہونا۔ خَمَّكٌ هَوَانُ۔ الرَّجُلُ مِنْ الطَّعَامِ:

زک جانا۔ صَمَّغَلٌ بِالْعَصَا: لاشھی سے۔

أصْمَلَةُ الصِّيَامِ: روزے کا ڈبلا دینا۔

إصْمَالٌ: سخت ہونا۔ النَّبَاتُ: نباتات کا

گھٹا ہونا۔

الصَّمَّالُ: مرد قوی بخ۔

الصَّمَّالُ وَالصَّمَّيْلُ: خشک۔

المُصَمَّيْلُ: غصہ کی وجہ سے پھولنے والا۔

المُصَمَّيْلَةُ: مصیبت۔

صَمَّيٌّ يَصْمِي صَمَّيَانًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

جلدی کرنا۔

صَمَّيٌّ يَصْمِي صَمَّيَانًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

آپنا نام گانا ہے "مَا صَمَّكَ عَلَيْنِي" یعنی کس چیز

نے تم کو اس پر برا سمجھتے کیا۔ الصَّمَّيدُ: شکار کا

سامنے مرنا۔

أصْمِي إِصْمَاءَ: الرَّجُلُ: جلدی کرنا۔

الصَّمَّيدُ: تیر مارنا اور شکار کا سامنے ہی ٹھنڈا ہونا

۔ الفَرَسُ عَلَيَّ لِجَاهِهِ: لگام کو کاٹنا اور چلانا۔

أصْمِي مَيِّتَةً: موت کا مزہ چکھنا۔

إِنصَمِي إِصْمَاءَ: عَلَيْنِي: گرنا۔

الطَّائِرُ: نوٹ پڑنا۔

الصَّمَّيَانُ: بہادر جس کا حملہ خالی نہ جائے۔ ج

صَمَّيَانُ۔

أصَمَّ: گندہ بھل ہونا۔ غرور سے ناک پھیلانا

۔ القَاءُ: فاسد ہونا۔ اللَّحْمُ: بدبودار

ہونا۔ عَلَيَّ الأَمْرُ: اصرار کرنا۔

الرَّجُلُ: خاموش ہونا۔ غیظ و غضب سے بھر جانا۔

الصَّنَّ: ٹوکی۔ روٹی رکھنے کی ڈھکنے دار ٹوکی۔ زخمیل۔ ج صَنَّان۔

الصَّنَّ: آونٹ کا پیشاب۔ ویر نامی ایک جانور کا پیشاب۔ جاڑے کے سخت سات دنوں میں سے

پسلان۔

الصَّنَّانُ: گندہ بھلی۔ بدبو۔ ج أصِنَّةٌ۔

الصَّنَّةُ: گندہ بھلی۔ بدبو۔

الصَّنَّانُ: بہادر۔

الأَصْنُ: غفلت برتنے والا۔

الصَّنَابُ وَالصَّنَابَةُ: بلی پٹیہ اور پیٹ والا۔

پٹنی جو رانی اور زیتون کے تیل سے بنائی جاتی

ہے۔

الصَّنَابِيُّ: سفیدی کے ساتھ زردی آمیز

سرخ رنگ والا۔

صَنَّوْتُ صَنَّوْرَةً: التَّخَلُّةُ: درخت خرما کا کم

پھل اور پکے تھے والا ہونا۔

الصَّنَّوْرُ: ہریز کا باریک و کمزور۔

الصَّنَّوْرُ وَالصَّنَّوْرَةُ: درخت خرما جس کا

پھل کم اور تنہ پتلا ہو۔ درخت خرما جو دو سرے

درخت خرما کی جڑ سے بغیر بونے ہوئے نکلے۔

الصَّنَّوْرُ وہ شخص جو کمزور بغیر والی وارث کے

ہو۔ کمینہ۔ چھوٹا بچہ۔ مصیبت۔ ٹھنڈی ہوا۔ گرم

ہوا۔ خوش کی تالی جس سے پانی نکلے۔ ج صَنَّابِئِرُ:

الصَّنَّابِئِرُ: ٹھنڈی ہوا۔ گرم ہوا۔ جاڑے کے

سخت سات دنوں میں سے دو سران۔ ج صَنَّابِئِرُ:

کہا جاتا ہے لَبْلَةٌ صَنَّابِئِرُ وَصَنَّابِئِرُ: بہت ٹھنڈی یا

گرم رات۔

صَنَّابِئِرُ الشَّتَاءِ: جاڑے کی شدت۔

الصَّنَّابِئِرُ: ایک درخت ہے جس کے پتے

بیشہ سبز رہتے ہیں اور اس کے پتے بلندی پر

ہوتے ہیں۔

الصَّنَّابِئِرِيُّ: جو صنوبر کے پھل کی شکل کا گول

لبا مغزولی ہو۔

صَنَّيْعُ: البِخِيْلُ: سوال کے وقت متنبہ

ہونا۔

أصَنَّتِ الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔

الصَّنَّوْتُ: شیشی کا غلاف۔ کھجور کے پتوں کی

بنی ہوئی زخمیل۔ ج صَنَّابِئِتُ:

صنِع (ن) صنُوَجًا بِالْعَصَاءِ: لا تُحْمَى سے مارنا۔ صنِع النَّاسِ: ہر ایک کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا۔

صَنِيعٌ تَصْنِيعًا بِهِ: بچھاڑ دینا۔ عوام کہتے ہیں "صَنِيعٌ رَقِيبُهُ" یعنی کرن کے اعصاب اڑ گئے اور صنِيعٌ شَخْبَتْ ہے۔

الصَّنِيعُ: جانچ۔ مجرا۔ جنگ۔ ج صنُوَج صنِيعُ الْحِجْرِ: حِجْر کی آواز۔ کہا جاتا ہے مَا أَذْرِي أَيْ صَنِيعٌ هُوَ" میں نہیں جانتا کہ وہ کون آوی ہے۔

الصَّنَاخُ وَالصَّنَاخَةُ: جھانچہ والا۔ صَنَاخَةُ الْعَرَبِ: اٹھی قیس شاعرانیت کا لقب صَنَاخَةُ الْحَيْشِ: ٹہل۔

الصَّنِيدِيْدُ: مِثْرُ الرِّيحِ او الرِّيحُ: تیز۔ مِثْرُ الْغَيْثِ: بڑی بوند کی بارش (وَالصَّنِيدُ) سردار۔ بھادر۔ ج صَنَائِدُ۔ الصَّنَائِدُ: مصیبتیں۔ فکر کی جماعت۔ کہا جاتا ہے "يَوْمَ حَامِي الصَّنِيدِ او الصَّنَائِدِ" یعنی سخت گرم دن۔

الصَّنْدُوْقُ: کس۔ ج صَنَائِدِيْقُ: الصَّنْدَلُ: ایک خوشبودار لکڑی کا نام۔

الصَّنَادِلُ: بڑے سروالا۔

الصَّنْدَلَانِي: عطار۔ صِنْدَلَانِي میں ایک لغت ہے۔ ج صَنَائِدَةٌ۔

الصَّنَارُ وَالصَّنَارُ: چٹار کا درخت۔ واحد صَنَارَةٌ وَصَنَارَةٌ۔

الصَّنَارَةُ: نکلے کے سرے پر منڈھا ہوا لہا۔ صَنَارَةُ الصَّنَادِ: مچھلی وغیرہ کے شکار کرنے کا کانا۔ ہنسی۔ ج صَنَائِرُ: کہا جاتا ہے "رَجُلٌ صَنَارَةٌ وَصَنَارَةٌ" یعنی بدخلق مرد۔ ج صَنَائِرِي۔

الصَّنُوْرُ: بچل۔ بدخلق۔

صَنِيعٌ (ف) صَنْعًا وَصَنْعًا: الشَّقِيُّ: بنانا۔ _____ الْيَوْمَ مَعْرُوفًا: احسان کرنا _____ یہ صَنِيعًا قَبِيْحًا: بڑائی کرنا _____ صَنْعًا وَصَنْعًا الْفَرَسُ: اچھی تربیت کرنا۔

صَنِيعٌ الشَّقِيُّ: مزین کرنا۔ کارگیری سے خوبصورت بنانا۔

أَصْنَعُ الرَّجُلُ: سیکھنا۔ مضبوطی سے کام

کرنا۔ دوسرے کو درد دینا۔

صَانَعَةٌ مُصَانَعَةٌ: نری کرنا۔ مدارات کرنا۔ رشوت دینا۔ مثل مشہور ہے "مَنْ صَانَعٌ بِالْمَالِ لَمْ يَخْتَشِمْ مِنْ طَلْبِ الْحَاجَةِ" جو شخص رشوت میں مال خرچ کرے وہ حاجت کے طلب کرنے سے متنبض نہیں ہو سکتا _____ هُ عَنِ الشَّقِيِّ: فریب دینا۔ الرَّجُلُ: رفیق بننا۔

تَصْنَعُ: تَزْمِيْن کا تکلیف کرنا۔ باہات کرنا۔

إِصْطَنَعَ: شَيْئًا: تیار کرنے کا حکم دینا _____ عِنْدَهُ صَنِيعَةٌ: احسان کرنا _____ ه: ادب سکھانا _____ ه لِنَفْسِهِ: اپنے لیے اختیار کرنا _____ فُلَانٌ خَيْرَاتِي كَمَا تِيَارُ كَرْنَا: الرِّزْقُ: پیش کرنا۔

إِسْتَصْنَعَهُ: الشَّقِيُّ: کسی چیز کو بنانے کے لیے کرنا۔

الصَّنِعُ: مہ۔ ایک چھوٹا سا جانور۔ وَرَجُلٌ صَنِيعٌ الْيُدِيْنِ: کارگیری میں ماہر۔ ج رَجَالٌ صَنَعُوْنَ۔

الصَّنِعُ: مہ۔ عمل۔ احسان۔ رزق۔

الصَّنِعُ: بنا ہوا۔ کپڑا۔ ٹمامہ۔ حوض۔ قلعہ۔ گوشت بھوننے کی تہ۔ درزی۔ ج أَصْنَاعٌ رَجُلٌ صَنِيعٌ الْيُدِيْنِ: کارگیری میں ماہر۔ ج رَجَالٌ صَنَعُوْنَ۔

الصَّنِعَةُ: پیش۔ کاری گری۔ صَنْعَةُ الْفَرَسِ: گھوڑے کے سدھانے کا ٹھن۔

الصَّنَاعُ: لکڑی جو پانی کو کچھ دیر روکنے کے لئے ٹالی میں لگا دی جائے۔

رَجُلٌ صَنَّاعٌ الْيُدِيْنِ وَصَنَّعٌ الْيُدِيْنِ: کارگیری میں ماہر اور ایسا ہی اَمْرًا اَصْنَاعٌ الْيُدِيْنِ وَ اَمْرًا اَتَانٌ صَنَّاعَانٌ وَ نِسْوَةٌ صَنَّعٌ۔ اور شاعرو بلع کے لیے کہا جاتا ہے۔ هُوَ صَنَّعٌ الْلِسَانِ وَ لَهُ لِسَانٌ صَنَّعٌ۔

الصَّنَاعَةُ وَالصَّنَاعَةُ: پیش۔ وہ علم جو مزاوت عمل سے حاصل ہے جیسے درزی کا کام جو لہا گری وغیرہ وہ علم جس کا تعلق کیفیت عمل سے ہو جیسے منطق۔

اور کہا گیا ہے کہ صَّنَاعَةُ بِالْفَتْحِ کا استعمال محسوسات میں ہوتا ہے اور صَّنَاعَةُ بِالْكَسْرِ کا معانی میں۔ ج صَنَّاعَاتٌ وَصَنَّاعٌ۔

الصَّنَاعِي: مصنوعی۔ طبعی کا مقابل۔

الصَّنِيعُ: مہ۔ بنایا ہوا۔ میل شدہ کوار۔ تیز صاف شہرا کپڑا۔ سدھا ہوا گھوڑا۔ کھانا۔ احسان۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ صَنِيعٌ" یعنی فلاں میرا تربیت یافتہ ہے "صَنِيعٌ صَنِيعٌ" جس کی جلاعی دیکھ بھال کی جائے۔ "رَجُلٌ صَنِيعٌ الْيُدِيْنِ" کاری گری میں ماہر۔ مَوْنُثٌ "صَنِيعَةُ الْيُدِيْنِ" قَوْمٌ صَنَّعُوا الْاِيْدِي وَصَنَّعُوا الْاِيْدِي وَصَنَّعُوا الْاِيْدِي وَصَنَّعُوا الْاِيْدِي وَصَنَّعُوا الْاِيْدِي وَصَنَّعُوا الْاِيْدِي: کارگیری میں ماہرین۔

الصَّنِيعَةُ: احسان۔ ج صَنَّاعٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ صَنِيعِيٌّ" میرا تربیت یافتہ ہے۔

الصَّنَاعُ: فا۔ کارگیری۔ ج صَنَّاعٌ: کہا جاتا ہے "اَمْرًا اَصْنَاعَةً الْيُدِيْنِ" یعنی کارگیری میں ماہر عورت۔

صَنْعَاءُ: موجودہ یمن کا دار الحکومت۔ نسبت کرنے میں صَنَّعَائِي اور صَنَّعَائِي کہا جاتا ہے۔

الصَّنَاعَةُ: لکڑی جو پانی کو روکنے کیلئے ٹالی میں لگا دی جائے۔

الصَّنِيعَةُ الْمَصْنُوعَةُ وَالْمَصْنُوعُ: حوض جس میں بارش کا پانی جمع کیا جائے۔ ج مَصْنِيعٌ الْمَصْنِيعُ: گاؤں۔ قلعے۔ محلات۔ المصنعة: کھانے کی دعوت۔ کہا جاتا ہے "كُنَّا فِي مَصْنِيعَةِ فُلَانٍ" ہم فلاں کے یہاں دعوت میں تھے۔ مقام شدت کی کمیوں کیلئے جو آبادی سے علیحدہ بنایا جائے۔

صَنَّافٌ الشَّقِيُّ: قسم قسم بنانا اور بعض کو بعض سے جدا کرنا _____ الْكِتَابُ: کتاب تفسیر و تالیف کرنا _____ الشَّجَرُ: پتے لگانا _____ الثَّمَرُ: کھجور کا دھ کچرا ہونا۔

تَصَنَّفْتُ: الشَّجَرُ او النَّبَاتُ: پتے لگانا۔ مختلف قسمیں ہونا۔ تصنیف الشَّقِيُّ: ہونٹ کا چھل جانا۔ تصنیف السَّاقِ: پینڈی کا پھٹ جانا۔

الصَّنْفُ: صفت۔ کہا جاتا ہے "صِنَّفَةٌ كَذَا" صِنَّفُ الثَّوْبِ: کپڑے کا کنارہ۔

الصَّنْفُ وَالصَّنْفُ: نوع۔ قسم۔ کہا جاتا ہے "عِنْدَهُ صَنْفٌ مِنَ الْأَنْبِئَةِ" یعنی اس کے پاس ایک قسم کا سامان ہے۔ ج أَصْنَافٌ وَصُنُوفٌ۔

الأضنْفُ - شتر مرغ جس کی ٹانگیں چھلی ہوئی ہوں۔

الصَّافِرُ - ہر چیز کا خالص۔ کہا جاتا ہے "وَلَدٌ صَّافِرٌ" یعنی جس کا باپ معلوم نہ ہو۔

صَنِقٌ (س) صَنَقًا - جسڈہ او ابطہ: تیز بدبودار ہونا۔ صفت صَنِيقٌ۔

أَصْنَقٌ عَلَيْهِ - اصرار کرنا۔ فِي مَالِهِ: اچھی طرح سے عمل کرنا۔ الرَّجُلُ الْعَزِيزِيُّ بَلِيدٌ كَالْبُدُودَارِ كَرِيْمًا - الصَّنِقُ - بخل کی تیز بدبو۔

الصَّنِقُ - بدبودار۔ وَرَجُلٌ صَنِيقٌ - بھاری بھرکم مرد۔

الصَّانِقُ - بہت سخت بدبودار۔ ج صَنْقَةٌ۔ الْمُصْنَقُ وَالْمِصْنَقُ - اُونٹوں کی اچھی خدمت کرنے والا۔

صَنِيمٌ (س) صَنْمًا - الْعَيْدُ: قوی ہونا۔ صفت صَنِيمٌ مَوْتٌ صَنِيمَةٌ ج صَنِيمَاتٌ۔

الْوَائِحَةُ: خراب ہونا۔ صَنْمٌ آواز دینا۔ چلانا۔ تصویر بنانا۔

الصَّئِمُ - بٹ۔ ج أَصْنَامٌ۔ الصَّئِمَةُ - جانور کے پر کا قلم۔ مصیبت۔

أَصْنَى إِصْنَاءً أَوْ نَصْنَى وَنَصْنِيًا - حرص کی وجہ سے چولے کے پاس بیٹھ کر کباب بنانا اور گوشت بھوننا یہاں تک کہ راکھ وغیرہ لگ جائے۔ اصنی النخل: درخت خرما کی ایک جڑ سے دودرخت کا ہونا۔

الصَّنَاءُ وَالصَّنَى - راکھ۔ الصَّنُو - دو پہاڑوں کے درمیان گہرائی۔ جس میں تھوڑا پانی ہے۔ ج صَنْوٌ۔

الصَّنُو وَالصَّنُو - حقیقی بھائی۔ بیٹا۔ بچا۔ مَوْتٌ صَنْوَةٌ وَصَنْوَةٌ ج أَصْنَاءٌ وَصَنْوَانٌ - ایک جڑ سے دو یا دو سے زیادہ درخت خرما لگیں تو ہر ایک کو ان میں سے "صَنُو" یا "صَنْو" کہا جاتا ہے۔

تشبیہ صَنْوَانٌ وَصَنْيَانٌ تَمْلِيثٌ صَادٍ كَسَاثَةٍ أَوْ رَجْمٍ صَنْوَانٌ - کہا جاتا ہے "رَجْمَانٌ صَنْوَانٌ" یعنی پاس والے کوئیں یا جو ایک ہی چشمہ سے جاری ہوں۔

الصَّلْوَةُ وَالصَّلْوَةُ - پودہ درخت کا قلم۔

الصَّائِي - بیٹہ خدمت کرنے والا۔

الصَّنَائِيَةُ - کل۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ بِصَّنَائِيَتِهِ" یعنی کل لے لیا۔

صَه - اسم فعل ہے بمعنی خاموش رہ اور یہی لفظ مَوْتٌ وَاذْكَرُکَ لِيَعِيَ اور جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے اور صہ توین کے ساتھ بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی وقت میں خاموش رہو۔

صَهَّةُ الْقَوْمِ: ڈانٹنا۔

صَهَبٌ (س) صَهَبًا وَصَهْبَةً وَصَهْوَانَةٌ وَاصْطَهَبَ وَاصْطَهَبَتْ - الشَّعْرُ: بالوں کا سرخ ہونا یا سرخ سفید ہونا۔ صفت اصْطَهَبَ۔

الصَّهَابُ - ایک مقام کا نام ہے جس کی طرف اُونٹ منسوب ہوتے تھے۔

الصَّهَابِيُّ - مِنَ الْجِنِّالِ: جو موضوع صباب کی طرف منسوب ہوں۔ جو بہت زیادہ سفید نہ ہو زیادہ جو کم نہ ہو۔ سخت اور اسی معنی میں ہے "الْمَوْتُ الصَّهَابِيُّ" یعنی سخت قسم کی موت۔

الصَّهِيْبُ - سخت گرمی۔ گرم دن۔ لمبا آدی۔ سخت پتھر۔ ہموار زمین۔ دھوپ کی وجہ سے ایسی گرم زمین کہ جس پر گوشت بھن جائے۔ ج صِيَاهِبٌ۔

الأصْهَبُ - سفیدی سرخی مائل۔ ٹھنڈا دن۔ شیر۔ اصْهَبَ السَّبَالُ: دشمن۔ مَوْتٌ صَهْبَاءٌ ج صَهْبَةٌ۔

الصَّهْبَاءُ - شراب۔ المصْهَبُ - گوشت چربی ملا ہوا۔ گوشت کم بھنا ہوا۔

الصَّهْبَانِيَةُ - بڈی۔ اُونٹیاں جو صباب نامی اُونٹ کی جانب منسوب ہیں۔

صَهْدَةٌ (ف) صَهْدًا - الشَّمْسُ: آفتاب کا جھلانا۔

الصَّهْدَانُ - گرمی کی شدت۔ الصَّهْدِيُّ وَالصَّهْدِيُّ - گرمی کی شدت۔ بیابان بے آب و گیاه۔ متحرک سراب۔ عَزَّ صَهْدُوْدٌ۔ عزت بلند۔

الصَّهْدُوْدُ - تن و توش والا۔

صَهْرٌ (ف) صَهْرًا - الشَّيْءُ: بچھلانا۔ صَهْرَةٌ - الشَّمْسُ: آفتاب کا گرم کر دینا۔ صَهْرَ الشَّيْءُ:

بچھلی ہوئی چربی ملنا۔ الشَّيْءُ: بچھلی ہوئی چربی کو ساکن بنانا۔ صفت مَعْقُولٌ صَهِيْرٌ وَ مَضْهُوْرٌ - فَلَانَا بِالْحَيْثُ: سخت سخت قسم کھلانا۔ الشَّيْءُ: قریب کرنا۔

صَاهِرٌ مَصَاهِرَةٌ - الْقَوْمُ وَفِي الْقَوْمِ - أَصْهَرُ - بِهِمْ وَالْيَهُمُ وَفِيهِمْ: داماد بنا۔ سرینا۔ أَصْهَرُ الْحَيْشِ لِلْحَيْشِ: بعض لکڑی کا بعض سے قریب ہونا۔ اصْهَرَةٌ: قریب کرنا۔

انْصَهَرَ - الشَّيْءُ: بچھلانا۔

انْصَهَرَ - الشَّيْءُ: بچھلانا (ج و اصْهَارًا) الْجَزْبَاءُ: گرجت کی پیٹھ کا سورج کی گرمی سے چمکانا۔

الصَّهْرُ - گرم۔

الصَّهْرُ - قربت۔ قبر۔ داماد یا بیٹوی۔ ج اصْهَارٌ مَوْتٌ صَهْوَةٌ۔

الصَّهْوَارَةُ - جو بچھلایا جائے۔ چربی کا ٹکڑا۔ بڈی کا گودا۔

الصَّهْوُورُ - بچھلانے والا۔ گوشت بھوننے والا۔ ج صَهْرٌ۔

الصَّهْرِيُّ - بچھلنے والا۔

صَهْرَجٌ - الْعَرْفَةُ: چونہ مٹی ملا کر لینا۔

الصَّهْرِيْجُ وَالصَّهْرَارِجُ - پانی کا حوض۔ ج صَهْرَانِيْجٌ وَ صَهْرِيْجٌ - صہریج بھی ایک لغت ہے۔ حوض۔ صَهْرَارِجٌ: حوض چونہ مٹی سے لپٹا ہوا۔

الصَّهْصَلِيْقُ وَالصَّهْصَلِيْقُ - مِنَ الْأَصْوَابِ: تیز آواز۔

صَهْصَهَةٌ بِالْقَوْمِ - حد حد کہہ کے لوگوں کو خاموش کرنا۔

صَهْلٌ (ف) ض) صَهْلًا وَ صَاهِلَةٌ وَ صَهَالًا - الْقَرْمُ: ہنسانا۔

تَصَاهَلَتِ - النِّخْلُ: ایک دوسرے کی طرف ہنسانا۔

الصَّهْلُ - آواز کی تیزی مع گلاب پرنے کے۔

الصَّاهِلُ - فَا - گھوڑا جیسے "نَابِيْحٌ" کے کیلئے۔ ج صَوَاهِلُ - الصَّوَاهِلُ: گھاس وغیرہ میں گھبھوں کی بچھناہٹ۔

الصَّهَالُ وَالصَّهَيْلُ - گھوڑے کی آواز۔ الصَّهَالُ - بہت ہنسانے والا۔

آواز کے لیے غلٹی۔

اور یا جن سے جانور وغیرہ کو آواز دی جائے یا ڈانٹا جائے جیسے گھوڑے کے لیے ہلا اور چمکے لیے غلٹی۔

اور یا تعجب کے لیے جیسے وی یا اظہار درد کے لیے جیسے آج یا اظہار حسرت و انوس کیلئے جیسے آو۔

الصوت والصات والصیت والصینة۔ اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے "إنتشر صوته بين الناس" اس کی شہرت لوگوں میں پھیل گئی۔ الصینة: نوع آواز۔

الصات والصیت۔ بلند آواز والا۔ کہا جاتا ہے زجل صات و صوت صیت المصوات۔ بت آواز دینے والا کہا جاتا ہے "ما بالذار مصوات" یعنی گہری کوئی نہیں۔

الصوخان۔ خشک سخت۔ مؤنث صوخانة۔ نخلة صوخانة: خشک درخت خرما جس کے پتے بھی خشک ہوں۔ کہا جاتا ہے "أى صوخان هو" یعنی کون آدی وہ ہے۔

صاخة تصوخ صوخا۔ پھاڑنا۔

صوخة الشمس أو الريح: خشک کرنا۔ صوخ البقل: خشک ہونا۔

تصوخ: پھٹنا۔ خشک ہونا۔

إنصاح: انصیحا۔ پھٹنا۔ الفخز: روشن ہونا۔

الصوح والصوخ: سر کانارہ۔ دامن کوہ۔ الصاخة: بجز زمین۔

الصواح: گھوڑے کا بینہ۔ کھجور کا خشک ٹکڑا۔

الصوخان: خشک۔

صاخ تصوخ صوخا: فی الأرض: زمین میں دھنسا۔

أصاخ إصاخة: لئو اليه: کان لگانا۔ کہا جاتا ہے اصاخ عن كذا، یعنی فلاں چیز سے رجوع کیا

و"أصاخ على حق فلان" فلاں کے حق ضائع کرنے پر خاموش رہا۔

الصاخة: مصیبت۔ ہڈی پر صدمہ کا اثر۔ صاخ و صاخات۔

الضاب: ایک لڑو درخت ہے صابئة واحد اور "صابئة" اس درخت کے عصارہ کو بھی کہتے ہیں۔

الصوب: جانب۔ کہا جاتا ہے "فلان مستقيم الصوب" جب کہ اپنے ارادہ سے دائیں بائیں

جانب مائل نہ ہو۔ صوب مطر سے تشبیہ دے کر عطا کے معنی بھی آتے ہیں۔ ضد خطا۔

الصیب: بارش والا بادل۔

الصابة: مصیبت۔ عقل کی کمزوری۔ کہا جاتا ہے "في عقله صابة" یعنی توڑا سا خون ہے۔

الصوبة: غلہ کلہیر۔

الصواب: ٹھیک۔ لائق۔ حق۔

الصائب: ٹھیک کرنے والا۔ ج صیاب۔

الصونب والمصنب: درست کار۔

صوب: ٹھیک کرنے والا۔ بارش۔

مطر صوب: بننے والی بارش۔

صوابة القوم و صائبهم و صيائبهم: قوم کے منتخب لوگ۔

الأصوب: سخت مصیبت والا۔

المصيبة: بلا۔ ہر امر مکروہ۔ ج مصایب و

مصاوب و مصیبات۔

المضاب والمضابة والمضوية: بلا۔ ہر امر

مکروہ۔

المضاب: جس میں کچھ خون ہو۔

المضوب: بچہ۔ ڈوٹی۔

المضويج والمضويج: بیلین۔

صات تصوت و نصات صوتا: آواز دینا۔

پکارنا۔

صوت تصوتنا و أصات إصاته: آواز دینا۔

أصات بفلان: کسی کے متعلق غیر پسندیدہ چیز کو

مشہور کرنا۔ أصات الطست و صوته: طشت

بجانا۔

إنصات: الزجل: جیکے سے جانا۔ جھاؤ کے بعد

تدکاید ہونا۔ کہا جاتا ہے "إنصات به الزمان"

یعنی مشہور ہو گیا۔ "دعوى فأنصات" بلایا گیا پس

متوجہ ہوا۔

الصوت: آواز۔ ہر قسم کا راگ۔ ج أصوات۔

نحویوں کے نزدیک اسماء اصوات وہ ہیں کہ جن

سے کسی آواز کی حکایت کی جائے جیسے پھر پھر کی

صوت۔

انصاف: انصیاب الماء: پانی کا پتہ۔

انصاف: انصیابة او استصوب

استصوابا: الزمان او الفعل: صواب سمجھنا۔

صها تصهی صهوا و صهی تصهی —

صهی زخم کا ہر ہونا۔ زخم کارنا۔ صها الزجل۔

مادہ ہونا۔

صهی تصهی صهنا: غم سیدہ ہونا۔

صاهی: الذابة: جانور کی پیٹھ پر سوار ہونا۔

أصهی إصهأ: الفرس: گھوڑے کی پیٹھ کا

درد مند ہونا۔

الصهوة: گھوڑے کی پیٹھ۔ کہا جاتا ہے

"استوی علی صهوة العز" یعنی اسے عزت

حاصل ہوئی۔ کوہان کا پچھلا حصہ۔ ج صهء و

صهوات — پھاڑی چوٹی کا برج۔ ج صهی

— زمین کا پت حصہ جس میں پانی جمع ہو۔ پانی

کاشح۔ ج صهء۔

صاب تصوب صوتا و مصابا: المظن:

بارش ہونا — الشئ: اوپر سے اترنا

— صوتا الماء: مانا — السماء

الأرض: برسانا — المظن: بارش کا پینچنا

— صوتا و صوتا: السهم نحو الزميمة:

تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگانا۔

صاب يصيب صيبا: السهم القرقاس:

تیر کا نشانہ پر لگانا۔

صوب: لئو اليه: تصدیق کرنا — فلانا

کسی کی تصدیق کرنا — السهم: سیدھا کرنا

— الفرس: گھوڑے کو دوڑنے کے لیے

چھوڑنا — الإناء: جھکارنا — الماء:

گرا دینا — زامة: پست کرنا —

المكان و غيره: دھولان ہونا۔

أصاب السهم: تیر کا نشانہ پر لگانا —

الزجل: درست کرنا — الشئ: صواب

سمجھنا — من الشئ: لینا — الشئ:

پانا۔ جڑ سے اکھیرنا۔ پست کرنا — إصابة و

مصابة: الدهر القوم یا هو اليهم أو تفويهم:

تکلیف دینا۔ أصابت المصيبة فلانا: نازل

ہونا۔ أصابه بعينه: نظرد لگانا۔

تصوب: یعنی اترنا۔

انصاف: انصیاب الماء: پانی کا پتہ۔

انصاف: انصیابة او استصوب

استصوابا: الزمان او الفعل: صواب سمجھنا۔

فلاں کو اللہ تعالیٰ نے ایتھے طریقے سے پیدا کیا۔
 ”وَصَيَعَ عَلَى صَيْغِهِ“ یعنی وہ اس کی پیدائش
 پر پیدا کیا گیا۔ و صاع لهُ الشراب: اس کیلئے
 شراب خوشگوار ہوئی۔
 صَاعٌ يَصُوغُ صَيْغَةً وَصَيَاغَةً وَصَيْغُوغَةً.
 الشئ: بچھلانا، ڈھلانا۔
 اِنصَاعٌ اِنصِيَاغًا. اِجْلَانًا، اِوْهَلَانًا. کما جاتا ہے
 ”هُوَ صَوَّغَ اَوْ صَوَّغَهُ اَجْبِيَهُ“ یعنی وہ اس کے
 ساتھ پیدا ہوا یا اس کے بعد پیدا ہوا کہ ان دونوں
 کے درمیان کوئی اور نہیں۔ ”هَذَا صَوَّغَ هَذَا“
 یعنی وہ اس کے مطابق ہے۔ ”هَذَا صَوَّغَانَ“
 یعنی وہ پیدائش وغیرہ میں ایک جیسے ہیں۔
 الصيغة: قسم۔ اصل۔ کما جاتا ہے ”هُوَ مِنْ
 صَيْغَةٍ كَرِيْمَةٍ“ یعنی وہ اصل کریم سے ہے ”و
 صَيْغَةُ الْاَمْرِ كَذَا وَ كَذَا“ امر اور وزن ہے جس
 پر امر کا صیغہ بنا یا جائے۔ ج صیغ۔
 الصائغ: زرگر۔ سار۔ ج صاعغة و صيَاغ و
 صَوَّاعٌ. الصيَاغَةُ: زرگری۔ ساری کا پیشہ۔ کما
 جاتا ہے ”هُوَ مِنْ صَاعَةِ الْكَلَامِ“ یعنی وہ لپاڑیا
 ہے۔
 الصَوَّاعُ وَالصَيَّاعُ وَالصَيْغُ لِاِثْنَيْ عَشَرَ.
 المصَّاعُ: ڈھالے ہوئے زیور۔
 صَافٌ يَصُوفُ صَوْفًا. عَنِ كَذَا: امراض
 کرنا۔ السَّهْمُ عَنِ الْهَدَفِ: تیر کا نشانہ
 سے خطا ہو جانا (صَوْفًا وَصُوفًا
 وَصَوْفٌ يَصُوفُ صَوْفًا) الكَيْشُ: مینڈھے کا
 بت اون والا ہونا۔ صفت اَصَوْفٌ. صَوْفَةٌ:
 صوفی بنانا۔
 اَصَافَةٌ مَآكِلٌ كَرْنَا. جھکانا۔
 تَصَوَّفٌ. صوفی بننا۔ صوفیوں کی سی عادت بنانا۔
 الصَّوْفُ: اون۔ ج اَصَوَافٌ. صَوْفَةٌ: اون کا
 ٹکڑا۔ کما جاتا ہے ”اَخَذَهُ بِصُوفٍ رَقِيْبِيهِ“ یعنی
 زبردستی پکڑا و ”اَعْطَاهُ اِيَّاهُ بِصُوفٍ رَقِيْبِيهِ“
 یعنی ہمسامہ یا مفت دے دیا۔
 الصَّوْفُ: اون کا بچھنے والا۔
 الصَّوْفِيَّةُ: عبادت گزاروں کی جماعت۔ واحد
 صوفی۔
 الصَّافُ وَالصَّافِي وَالْاَصَوْفُ وَ


التصويرة: سٹیچو۔ مجسمہ۔ بت۔
 المصوّر: قا۔ تصویر بنانے والا۔
 مَصُوْرًا الْكِنَانَاتُ. اللہ تعالیٰ۔
 الصُّوْسُ. التيم۔ بخیل۔ جو رات کو چھپ کر
 آئے تاکہ سمان نہ دیکھ لے۔ الصُّوْسُ عِنْدَ
 الْعَامَّةِ: عوام کے نزدیک مرغی کا بچہ جبکہ وہ
 انڈے سے نکلے اور فصیح لفظ قوب ہے۔
 صَاعٌ يَصُوعُ صَوَّعًا. الْحَبُّ: صلح سے ناپنا
 القوم: ایک کا دوسرے پر حملہ کرنا
 الشئ: موڑنا۔ متروک کرنا۔ القوم:
 قوم پر اطراف سے آنا۔ التخلُّ: شد کی
 مکھیوں کا ایک دوسرے کے پیچھے جانا۔
 الرُّجُلُ: خوف دلانا گھبرانا۔
 صَوَّعَ الشئُ: گول اور نوکدار بنانا۔
 لِنَقْطَانٍ: روئی ڈھننے کے لیے جگہ صاف کرنا
 الرُّوَيْحُ النَّبَاتُ: ہوا کا پودوں کو حرکت دینا
 الطَّائِرُ يُوْا مِيَهُ: پرندہ کا سر کو حرکت دینا
 الفَرْقُوسُ: سر کشی کرنا۔ کما جاتا ہے ”صَوَّعَ
 بَهْفَوْسُهُ“ یعنی سر کشی کی اور قبضہ میں نہیں آیا۔
 تَصَوَّعٌ: متروک ہونا۔ ذور ہونا۔ بچھلانا۔ النَّبَاتُ:
 پودہ کا بلبلنا۔ الشَّعْرُ: برآگندہ ہونا۔
 اِنصَاعٌ اِنصِيَاغًا. جلدی لوٹنا۔ گزارنا۔
 الصَّاعُ وَالصُّوعُ وَالصُّوعُ: ایک قسم کا پیمانہ
 جو اسی روپے کے پیر سے ساڑھے تین پیر کے
 مساوی ہے۔ ج اَصْوَاعُ و اَصْوَعُ و اَصْوَعُ و
 صُوْعُ و صَيْعَانُ. الصَّاعُ: پست زمین۔ کھیلنے کا
 ڈنڈا۔ سینہ کا وسط۔ وہ زمین جس میں جھاڑو دے کر
 کھیلنا جائے۔
 الصَّاعَةُ: پست زمین۔ روئی یا اون ڈھننے کے
 لئے زمین۔ کما جاتا ہے ”اِتَّخَذَ لِصُوفِكَ صَاعَةً“
 اپنی اون ڈھننے کیلئے زمین بنا۔
 الصُّوعُ وَالصُّوعُ: پانی پینے کا پیالہ۔ ج
 صَيْعَانُ۔
 صَاعٌ يَصُوعُ صَوَّعًا. پانی کا نیچے اتر جانا
 الشئُ: درست نمونہ پر آراستہ کرنا
 الكَلِمَةُ: وزن مخصوص پر دوسرے کلمہ
 سے کوئی کلمہ بنانا۔ کما جاتا ہے ”صَاعَ الْكَلَامَ“
 یعنی گھڑ لیا۔ صَاعَ اللّٰهُ فَلَا تَأْخُذُ صَيْغَةً حَسَنَةً“ یعنی

بَلَدًا صَوَّاحٌ. وہ شرجس میں پیردھنس جاتے
 ہوں۔
 صَاْرٌ يَصُوْرُ صَوَّارًا. آواز دینا۔ الشئُ:
 جھکانا۔ تم کہتے ہو ”صَاْرٌ غَنَقَهُ اَوْ وَجْهَهُ اِلَى“
 یعنی اس نے اپنی گردن یا اپنے چہرے کو میری
 طرف مائل کیا۔ کسی چیز کو اپنی طرف جھکانا۔ کما
 جاتا ہے ”صَوَّرْتُ الْفَصْنَ لِاَجْتِنِي الشَّمْسَ“ یعنی
 میں نے شئی اپنی طرف جھکانی تاکہ پھل توڑوں
 الشئُ: کانا۔ جدا کرنا۔
 صَوْرٌ يَصُوْرُ صَوَّارًا. جھکانا۔ صفت اَصَوَّرُ. کما
 جاتا ہے ”هُوَ صَوَّرَ اِلَى كَذَا“ جب کہ اپنی
 گردن یا چہرے کو مائل کرے۔
 صَوَّرَةٌ: تصویر بنانا۔
 صُوْرٌ لِي. خیال میں آنا۔
 اَصَاْرُهُ: جھکانا۔ توڑنا۔
 تَصَوَّرَ: الشئُ: ذہن میں لانا۔ خیال میں لانا
 الرُّجُلُ: گھرنایا کرنے کے قریب ہونا۔ کما
 جاتا ہے ”طَعْنَةُ فَتَصَوَّرُ“ اس نے نیزہ مارا پس وہ
 گر گیا۔ ”تَصَوَّرَ لُهُ الشئُ“ اس کے ذہن میں
 صورت آئی۔
 اِنصَاعٌ اِنصِيَاْرًا. جھکانا۔ ٹوٹنا۔
 الصُّوْرُ: چھوٹا درخت خرا۔ ج صَيَّرَانُ و
 اَصْوَارٌ. گردن کا پیلو۔ نہر کا کنارہ۔ ج صَيَّرَانُ۔
 الصُّوْرُ: نرسکھا۔
 الصُّوْرُ: کچی۔ ٹیڑھا۔ کما جاتا ہے ”فِي غَنَقِهِ
 صَوْرٌ“ یعنی اس کی گردن میں کچی ہے۔
 الصَّارَةُ مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔
 صَاْرَةٌ الْمَسْكُ: مشک کا ڈبہ۔
 الصُّوْرَةُ: اسم مرہ۔ جھکاؤ۔ سر کی خارش۔
 الصُّوْرَةُ: شکل۔ ج صَوْرٌ. صَوْرٌ. صَوْرٌ.
 الصُّوْرَةُ: صفت۔ نوع۔ چہرہ۔
 الصُّوْرُ وَالصُّوَارُ: گائیوں کا گلہ۔ اچھی بو
 توڑنا۔ مسک۔ مشک کا ڈبہ۔ ج صَيَّرَانُ۔
 الصُّوَارُ: گائیوں کا گلہ۔
 الصَّيْرَانُ: گائیوں کا گلہ۔ ج صَيَّرَانُ۔
 الصَّيْرُ: اچھی صورت والا۔ کما جاتا ہے ”رَجُلٌ
 صَيْرٌ صَيْرٌ“ مرد اچھی صورت میں بت کا۔
 الاَصْوَرُ: جھکاؤ والا۔

<p>شک ہو جانا۔ صانہ یصوئہ صؤنا و صینا و صیناة و اصطائة اصطيانا. حالت کرتا۔ صفت مفعول مضون۔ مضون۔ دوسرا کم استعمال ہوتا ہے۔ صان الثوب او العرض: کپڑے اور آبرو کو عیب لگانے والی چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ تصون و تصاون: من العيب: اپنے نفس کی عیب سے حفاظت کرنا۔ تصؤنة: بچنے کے لیے تکلف کرنا۔</p>	<p>المبضول: بھگوانے کا برتن۔ من مضاوول۔ المبضولة: کھلیان کا جھاڑو۔ صام یصوم صؤما و صیاما و اصطام۔ روزہ رکھنا۔ چلنے پھرنے، بولنے، کھانے پینے سے رک جانا۔ صفت صائم من صایمون و صؤام و صیام و صؤوم و صییم و صیام۔ صام الشهر: روزہ رکھنا۔ مینتہ: موت چکھنا۔ النعام: شتر مرغ کا بیٹ کرنا۔ صام النهار: دوپہر ہونا۔ صامت الشمس: آفتاب کا وسط آسمان پر پھینا۔ کما جاتا ہے "حینئہ و الشمس لہی مضاہما" یعنی میں اس کے پاس ایسے وقت پہنچا کہ آفتاب وسط آسمان میں تھا۔ صامت الريح: ہوا کا رک جانا۔ صومة: روزہ رکھنا۔ الصوم: روزہ۔ کام سے رکنا۔ روزہ دار نے لفظ مذکر و مؤنث واحد جمع سب پر لولا جاتا ہے۔ کما جاتا ہے "هو صوم" ہی صوم هم صوم۔ شہر الصوم: رمضان۔ صوم النعام: شتر مرغ کی بیٹ۔ الصوام: من الاراضی: شک بے پالی کی زمینیں۔ الصؤمان: روزہ دار۔ من صیامی۔ الصایم: روزہ دار۔ یؤم صایم۔ وہ دن جس میں روزہ رکھا جائے۔ ماء صایم: ٹھہرا ہوا پانی۔ الصایمة من المسکاکین: کند چھری من الخیل: بغیر چارہ کے کھڑا ہونے والا گھوڑا۔ و الصایمة من البکرات: نہ گھونٹنے والی چرخی۔ الصؤام: بہت روزہ دار۔ کما جاتا ہے "هو صؤام قوام" یعنی وہ دن میں روزے رکھنے والا اور رات میں عبادت کرنے والا ہے۔ مصام القوس و مصامتها: گھوڑے کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ صؤمق: الشئ: جمع کرنا۔ البناء: عمارت کو بلند کرنا۔ الصؤمعة و الصؤمق: راہب کی کئی گرجا۔ الصؤمعة: عقاب: ایک قسم کی بسی ٹوپی پہاڑ کی چوٹی۔ من صؤامع۔ صؤمعل: الزجل: کھال کا بھوک کی وجہ سے</p>	<p>الصایف۔ اون والا۔ الصؤقان: بہت اون والا۔ مؤنث صؤفانة۔ الصؤقان: ایک نرم شک چیز ہے جو درخت کی لکڑی کے اندر ہوتی ہے جو جلدی آگ پکھلتی ہے۔ الصؤف و الصؤفانی: بہت اون والا۔ جبة صیفة: بہت اون والا جبہ۔ صاق: الذابئة: ہانکنا۔ الصؤیق: ستو۔ سویت میں ایک لفت ہے۔ الصاق: پٹلی۔ من صؤق۔ ساق میں ایک لفت ہے۔ صاک یصؤک صؤکا۔ بہ الزعفران او المسک او نحوهما: زعفران یا مسک وغیرہ کا چھینا۔ تصؤک: لہی زجیعہ و بزجیعہ: گوبر میں تھرتھا۔ صال یصؤل صؤلا و صؤلة۔ علیہ: کوڑ پڑنا صؤلا و صیلا و صالا و صؤولا و صیلا و مضالة۔ علیہ: حملہ کرنا اور زبردستی کرنا۔ صیل لہ الامر: کوئی معاملہ مقدر کیا جانا۔ صؤل: البیدر: کھلیان کے اطراف و جوانب کو جھاڑنا۔ الشئ: پانی سے نکالنا۔ پانی میں ڈال کو صاف کرنا۔ صؤلة مضاولة و صیلا و صیالة ایک کا دوسرے پر حملہ کرنا۔ ایک دوسرے پر کوڑ پڑنا۔ تصؤلا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ ایک دوسرے پر کوڑ پڑنا۔ الصؤلة: حملہ۔ قدرت۔ قہر۔ کما جاتا ہے "لقینہ اول صؤلة" یعنی اول ولہ میں ملاقات کی۔ صؤلة: الحنطة: پانی میں سے نکالا ہوا اور صاف کیا ہوا گیہوں۔ الصؤلة: گیہوں وغیرہ کا کوڑا کرکٹ جو پانی سے صاف کرنے میں نکلے۔ کھلیان کے اگر گرد کا کوڑا کرکٹ۔ الصؤول: من الرجال: لوگوں کو مارنے والا۔ لوگوں پر زبردستی کرنے والا۔</p>
<p>الصؤان و الصؤان و الصؤان و الصینان و الصینان و الصینان: کپڑوں یا کتابوں کے محفوظ کرنے کا برتن۔ الصؤانة: ایک سخت قسم کا پتھر۔ ذہر۔ المصان و المصؤان: کمان وغیرہ کا خلاف۔ الصؤ: خالی۔ کما جاتا ہے "اناء صؤ" خالی برتن۔ الصؤة: گرج۔ آواز بازگشت۔ تیلہ نشان راہ کا پتھر۔ ج صؤی حج اصؤاء۔ الصؤی والاصؤاء: قبور۔ صؤی یصؤی صؤیا و صؤوی یصؤوی صؤوی و صؤوی تصؤیة و اصؤوی اصؤاء التخل: شک ہونا۔ صفت صؤی و صؤوی الضغ: تھن کا شک ہو جانا۔ صؤی (س) صؤی: الزجل: قوی ہونا۔ صاب یصیب صیبا۔ درست ہونا۔ صفت صایب: صایبہ السہم: تیر کا نشانے پر لگنا۔ سہم صیوب: تیر نشانے پر لگنے والا۔ ج صیوب۔ الصیاب و الصیابة و الصیاب و الصیابة: خالص۔ ہر چیز میں سے عمدہ۔ کما جاتا ہے "هو من صیابہم و من صیابہم" یعنی وہ سب میں عمدہ ہے۔ الصیابة: سرور۔ جماعت۔ کما جاتا ہے "هو صیابة قومہ" وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ صیابة القوم: یعنی جماعت قوم۔ صاح یصیح صیحا و صیححة و صیاحا و صیاحا و صیحانا۔ پختا چلانا۔ بہ: پکارتا۔ آواز دینا۔ علیہ: ڈانٹنا۔</p>	<p>صؤمعل: الزجل: کھال کا بھوک کی وجہ سے</p>	<p>صؤمعل: الزجل: کھال کا بھوک کی وجہ سے</p>

<p>کار۔ الصیاز: گاؤں کا گھ۔ جنگ کی آواز۔ الصیازة والصیرة: گائے بکریوں کا باڑہ۔ ج۔ صیبر و صیبر۔ الصایرة: خشک گھاس۔ الصیبر: جماعت۔ قبر۔ الصیؤر: محل رائے (الصیؤرة) انجام کار۔ الصیبر: انجام کار۔ پانی کا تھی۔ ج۔ مضان۔ الصیضة والصیصیة: کپڑا بننے والے کا کوچ۔ مرغ کا خار۔ ہرن اور گائے کا سیگ۔ چھوڑے توڑے کا دستہ۔ قلعہ۔ گڑھی اور ہرنہ لینے کی جگہ۔ ج۔ صیاصی۔ صاع یصیغ صیغاً و أصاع۔ الغنم: متفرق کرنا۔ القوم: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ تصیغ: الماء: بھرا ہوا۔ جوش مارنا۔ إفصاع: الزجل: تیزی سے واپس ہونا۔ القظیر: نساء آسانی میں چڑھنا۔ صاف یصیف صیفاً و صیف و تصیف وإصیف: المكان: موسم گرما میں اقامت کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا الطَّعَامُ يَصِيفُنِي" یعنی یہ کھانا میرے لیے گرم موسم گرما بھر کیلئے کافی ہے۔ صاف (ض) صیفاً و صیفولة: السهم عن الهدف: تیر کا نشانہ سے خطا کرنا۔ غنی و جہت: شہ پھیر لینا۔ صیف و صیف: المكان أو الزجل: مکان یا آدمی پر موسم گرما میں بارش ہونا۔ صفت مفعول: مَصِيفٌ مَصِيفٌ و مُصِيفٌ۔ صایفة مَصِيفَةٌ و صیفاً: موسم گرما کے لیے محلہ کرنا۔ أصاف إضافة: بوجہ میں شادی کرنا یا بوجہ میں بچہ پیدا ہونا۔ القوم: زمانہ گرمی میں داخل ہونا۔ اللہ عنہ الشر: اللہ کا شر کو دور کرنا۔ أصاف الدابة: جانور کا گرمی کے زمانہ میں بچہ دینا۔ الصیف: موسم گرما۔ ج۔ أصیاف۔ الصیفة: موسم گرما۔ یہ صیف سے اخص</p>	<p>مذکورہ بالا بیماری۔ الصیاد: شکاری۔ شیر۔ الصیؤد: شکاری۔ کہا جاتا ہے۔ کَلَبٌ صِیُؤٌ و صَفْرٌ صِیُؤٌ۔ ج۔ صیؤ و صیؤد۔ الصیؤد من النساء: بد خلق عورت۔ الصیذان: سونا۔ تابا۔ صیذان الحصى۔ کنگھریاں۔ الصیذانة: بھوت۔ من النساء۔ بد خلق۔ بھت بولنے والی۔ المصید والمصيدة والمصيدة والمصيدة: جال۔ المصید: شکار کیا ہوا۔ المصادو المصطادو المصید: شکار گاہ۔ الصیذلة: دوا فروشی۔ الصیذلی و الصیذلی: دوا فروش۔ ج۔ صیاذلة: یہ کلمہ وکیل ہے اور اس کے لیے اجزائی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوا خانہ کو اجزائیہ کہتے ہیں۔ الصیذن: مفرط عمارت۔ چاندی کی سل۔ نگ جادو۔ بگو۔ لومڑی۔ بادشاہ۔ عطر فروش۔ ایک چھوٹا سا جانور ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ سے محفوظ رکھنے کے لیے زمین میں بھٹ بناتا ہے۔ الصیذنانی: بھت۔ صان یصیتر صیترًا و صیترورةً و مصیترًا۔ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھرتا۔ جیسے "صان زیند غنیاً" یعنی فقر سے غنا کی طرف پلٹ گیا۔ متصل ہونا۔ الی کذا او الی فلان: پہنچنا۔ اور یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ صان یصیؤر و یصیؤر و یصیؤر: صیؤر۔ الشی: روک دینا۔ صیرةً و أصارةً إضافة: ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف کر دینا۔ تصیرة: مشابہ ہونا۔ الصیبر: انجام۔ الصیبر: کسی شے کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "فلان علی صیبر الامر" یعنی فلاں کام کے پورے ہونے کے کنارے پر ہے۔ وروازے کی بھری۔ چھوٹی نمکین پھلیاں۔ بیویوں کا پارہ۔ انجام</p>	<p>الغنفؤد: زخوشے کا بڑھنا۔ صیغ: بھم: گھبرانا۔ فہم: ہلاک ہونا۔ صیغ: چیننے میں مبالغہ کرنا۔ الشی: توز دینا۔ پھاڑنا۔ صیغ الریح او الشمس التقل: ہوا یا آلب کا ساگ کو خشک کرنا۔ صایغ و تصایغ: القوم: ایک دوسرے کو پکارنا۔ صایغ: بہ: آواز دینا۔ پکارنا۔ تصایغ جفئ السیف: تلوار کے میان کا پھٹ جانا۔ تصیح و انصاح: پھٹ جانا۔ تصیح التقل: اوپر کی جانب سے خشک ہونا۔ شروع ہونا۔ انصاح الفجر و التزیق: ظاہر ہونا۔ انصاحت الأرض: زمین کا کچھ حصہ روئیدگی سے ڈھک جانا اور کچھ کاغذی رہنا۔ الصیحة: حج۔ عذاب۔ اچھا عمارت۔ الصایحة: مؤنث صایغ۔ نوحہ کی حج۔ الصیاح: بھت چیننے والا۔ صاد یصید و یصاد صیداً و تصید وإضطاد: الطیر: ہرنے کا شکار کرنا۔ صفت صاید۔ صاد فلاناً: کسی کیلئے شکار کرنا۔ صاد وإضطاد المكان: فلاں جگہ میں شکار کرنا۔ صاد زیندا: شیر میں گردن کا کر دینا۔ صید یصید صیداً: شیر میں گردن کا ہونا۔ أصادة: شکار پر آسانا۔ أصاد العیبر: تکلیف دینا۔ طالع کرنا (کچی گردن کا) الأصید: تکبر سے سر کو بلند کرنے والا۔ وہ اؤنٹ جس کی گردن شیر میں ہو۔ بادشاہ اس لیے کہ وہ بھی غرور کی وجہ سے ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ شیر۔ مؤنث صیداء ج۔ صید۔ الضاد: حروف تہجی کا ایک حرف جس کا عدد بمساب جمل ۹۰ ہے۔ تابا۔ بتیل۔ ج۔ صیدان ایک مرض ہے جو اؤنٹ کو ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی ناک ہمیشہ بھی رہتی ہے اور وہ اپنے سر کو بلند کرتا ہے۔ شیر۔ الصیبد: شکار۔ الصیداء: مؤنث أصید۔ کنکر۔ أرض صیداء: سخت زمین۔ الصیبد: مع () و الصیبد اؤنٹ کی</p>
---	--	---

<p>میں چکر لگائے۔ ج صبیق۔ صَالِكٌ يَصِيْقُ صَبِيْقًا. بِه الطَّبِيْبُ او الدَّمُ : خوشبو یا خون کا چکنا۔ صَيْلٌ لَهْ كَذَا: مقدر کیا جانا۔ الصَّيْمُ: بہت سخت۔ الصَّيْنُ: نلک جین۔ الصَّوَانِيُّ: چینی برتن۔ واحد صَيْئَةٌ۔ الصَّيْنَةُ: کسی دھات کا طبق جو کسی چیز کو پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔</p>	<p>القَوْمُ“ زمانہ گرما کی خوراک۔ ج صَوَائِفُ۔ المَصِيْفُ وَالمُتَصِيْفُ وَالمُصْطَفِيفُ۔ موسم گرما بسر کرنے کا مکان۔ المَصِيْفُ: ندی جہاں پر بل کھاتی ہو۔ أَرْضٌ مَصِيْفِيْفٌ۔ زمین جس میں روئیدگی موخر ہو جائے اور موسم گرما میں اس میں بارش زیادہ ہوئی ہو۔ ج مَصَائِفُ۔ المَصَائِفُ: وہ پتے جو گرمی میں پیدا ہوں۔ الصَّبِيْقُ: چڑا چڑے۔ ج صَبِيْقَانُ۔ لچیند۔ بدبو۔ آواز (— وَالصَّيْقَةُ) وہ غبار جو فضاء آسمانی</p>	<p>ہے۔ ج صَيْفُ۔ الصَّيْفُ وَالصَّيْفَةُ۔ موسم گرما کی بارش۔ کہا جاتا ہے ”أَصَابَتْْنَا صَيْفَةٌ عَزِيْزَةٌ“ ہم پر موسم گرما کی کثیر بارش ہوئی۔ الصَّيْفُ وَالصَّيْفِيُّ: گھاس جو موسم گرما میں آتی ہے۔ الصَّائِفُ وَالصَّافُ۔ گرم۔ صَيْفٌ صَائِفٌ۔ تاکید کے موقعہ پر بولا جاتا ہے جیسے لَيْلٌ لَّيْلٌ الصَّائِفَةُ۔ مؤنث الصَّائِفُ کا۔ موسم گرما کا وقت۔ گرمی کے زمانے میں جگ۔ ”صَائِفَةٌ</p>
--	---	---



الضنب۔ ایک دریائی جانور۔ موتی۔

الضُّوْبَان۔ موٹا قوی مرد یا اونٹ۔

ضَاذٌ (ف) ضَاذًا۔ خصوصت میں غالب آنا۔

ضَبْدٌ ضَبْدًا۔ زکام زدہ ہونا۔

أَضَاذَةٌ أَضَاذًا۔ زکام میں مبتلا کرنا۔

الضُّوْدُ وَالضُّوْدَةُ وَالضُّوْدَةُ۔ زکام۔

الْمَضْرُودُ۔ زکام زدہ۔

ضَازَةٌ (ف) ضَازًا أَوْ ضَازًا ظَلَمَ كَرًا۔

ضَازَةٌ حَقَّةٌ حَنَ كَثَا۔

قِسْمَةٌ ضُوْرِيٌّ وَضَازِيٌّ وَضَنْزِيٌّ۔ ناقص

تقسیم۔

الضَّنَائِرُ۔ کاموں میں گھس پڑنے والا۔

الضُّوْرَةُ۔ حیر مر۔

ضَاضًا ضَاضًا وَضَوْضًا ضَوْضًا۔

الْقَوْمُ فِي الْحَزْبِ۔ قوم کا لڑائی میں شرمچانا۔

الضَّاعَا وَالضُّوْضَا وَالضُّوْضِيٌّ۔ لڑائی کا

شور۔

الضُّوْضُو وَالضُّضِيٌّ۔ اصل۔ کان۔ معدن۔

الضُّوْضُو: ایک قسم کا پردہ جس کے پردوں پر

طرح طرح کے نقشے ہوتے ہیں۔

ضَبِطٌ (س) ضَاظًا۔ الزَّجْلُ: چلنے میں

موڑ مے اور جسم کو حرکت دینا۔

ضَبْنِكُ۔ زکام زدہ ہوا۔ الضُّوَاكُ: زکام۔

ضَوْلٌ (ک) ضَالَّةٌ وَضُوْلَةٌ۔ لاغر ہونا۔ حقیق

ہونا۔

ضَاعَلٌ مَشْخَصَةٌ: اپنے آپ کو حقیر کرنا۔

تَضَاعَلٌ۔ حقیر ہونا۔ کزور ہونا۔ چھوٹا ہونا۔

الشُّي: سگڑنا۔

إِحْطَالٌ۔ چھوٹا ہونا۔ کزور ہونا۔ صفت

مُضْطَبِّلٌ۔

الضَّبِيْلُ۔ چھوٹا۔ باریک۔ حقیر۔ ذبلا۔ ج ضُوْلَاءُ

وَضِبَالٌ وَضِبَالُونَ۔

الضُّوْلَةُ۔ کزور۔ ذبلا۔

الضَّبِيْلَةُ۔ ضَبِيْلٌ كَامُوْنَتٌ۔ باریک سانپ۔

طَلِقٌ كَالْوَا۔

ضَانٌ (ف) ضَانًا۔ الضَّانُ: بھیڑ کو بکریوں سے

جد کرنا۔

أَضَانٌ أَضَانًا۔ بہت بھیڑ والا ہونا۔

الضَّانُ: بھیڑ۔ ذبیہ۔

الضَّانِيْنَ۔ کزور۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ ضَانِيٌّ"

کزور مر۔ ریت کا سفید چوڑا قطعہ۔ اُونُ وَاللَّـ

بھیڑ۔ ذبیہ۔ ج ضَانٌ وَضَانٌ وَضَبِيْنٌ وَضَبِيْنٌ۔

الضَّائِيَةُ۔ مَوْنَتٌ ضَانِيْنَ ج ضَوَائِيْنَ۔

الضَّبِيْنِيٌّ۔ دی جمانے کی بڑی سبک بھیڑ کی کھال

کی۔

ضَبِيٌّ يَضْبِيٌّ ضَبَانًا۔ الزَّجْلُ: جسم کلاغر ہونا۔

ضَبٌّ (ض) ضَبًّا۔ چپ ہونا۔ التَّاقَةُ۔

اُوْتَمِيٌّ كُوْ بُوْرِيٌّ تَقِيْلِيٌّ لَگَا كُرُوْدُو هُوَا _____ عَلِيٌّ

الشُّي: جمع کرنا۔ الشُّي: زمین سے چمٹنا

_____ عَلِيَّهُ: مغبوطی سے بچڑنا۔ کہا جاتا ہے

"فَلَانٌ يَضْبُ فُوْهًا وَتَضْبُ لِنَانِهِ بِكَذَا" اُو عَلِيٌّ

كَذَا" جبکہ حرص زیادہ ہو جائے (_____ ضَبًّا وَ

ضَبِيْبًا) الرِّيْقُ اُو الدَّمُ: تھوک یا خون بہنا۔

ضَبَّتْ (ض) ضَبًّا وَضَبُوْنَا الشَّقَّةُ: ہوٹ

میں ایسی بیماری ہونا جس کی وجہ سے خون سے۔

ضَبَّتْ يَضْبُ وَضَبِبٌ يَضْبُ ضَبَابَةً:

المَكَانُ: کسی جگہ میں زیادہ گود ہونا۔ صفت

ضَبَّتْ مَوْنَتٌ ضَبِيْبَةٌ۔

ضَبَّتْ عَلِيٌّ الشُّي: سخت بھڑ کرنا۔ جمع کرنا۔

ضَبَّتْ عَلِيٌّ الضَّبُّ: گودہ کو بھڑکانا۔ ضَبَّتْ

الْيَابُ۔ دروازے میں ملی لگانا۔

أَضْبٌ۔ خاموش ہونا۔ چیخنا اور گنگو کرنا۔

(ضد) _____ الْمَاءُ اُو الرِّيْقُ: پانی یا تھوک بہنا

_____ الْيَوْمُ: دن کا کمر والا ہونا _____

الْمَكَانُ: زیادہ رونیدگی والا ہونا _____

الشَّقْوُ: بیل کا زیادہ ہونا _____ الْقَوْمُ: کسی کام

کے لیے اکٹھا اٹھ کھڑا ہونا _____ الْقَوْمُ فِي

بُعِيْبَتِهِمْ: حصول مطلب کیلئے متفرق ہونا۔

أَضْبُوا الْفُلَانِي: کسی کے طلب کرنے کے لئے

متفرق ہونا _____ الْمَاءُ اُو الدَّمُ: بہانا _____

عَلِيٌّ الْأَمْرُ: حاوی ہونا _____ عَلِيٌّ الشُّي:

چھپانا _____ عَلِيٌّ الْمَطْلُوْبُ كَامِيْلِي كَالِ

قَرِيْبٍ هُوَا۔ أَضْبُوا عَلِيَّهُ: بھیڑ کرنا۔ أَضْبُ

عَلِيٌّ مَا فِي نَفْسِيهِ: جو کچھ دل میں ہو اس پر

خاموش رہنا _____ عَلِيٌّ فِي قَلْبِهِ: کہنے کو

دل میں پوشیدہ رکھنا۔

تَضَبَّتْ الضَّبِي: بچے کا موٹا ہونے لگانا۔

الضَّبُّ۔ گودہ۔ ج أَضْبٌ وَضَبَانٌ وَضَبَابٌ وَ

مَضْبَبَةٌ۔ عرب کہتے تھے "لَا أَفْعَلُهُ حَتَّى يَرُوْ

الضَّبُّ" یعنی میں یہ کام نہیں کروں گا یہاں تک

کہ گودہ پانی پر آئے اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ

گودہ پانی پر نہیں آیا کرتی۔

بِقَلَّةِ الضَّبِّ۔ ایک خوبشور دار نباتات۔

الضَّبُّ۔ اُوْنَتُ كَالِ سِيْنَةٍ يَاقِدُ كَالِ رُوْمِ۔ اُوْنَتُ

كَالِ اَلْجِ بِرِ كَامَرَضٍ۔ ہوٹ کا مرض جس سے

خون سے۔

الضَّبُّ وَالضَّبُّ: پوشیدہ کہنے۔ ج حَبِيَابٌ۔

کہا جاتا ہے "زَجَلٌ حَبُّ ضَبُّ" یعنی دعا باز جیلہ

گر مر۔

الضَّبَّةُ۔ ضَبٌّ كَامُوْنَتٌ۔ شگوفہ قبل اس کے

ضبط

ضمیر

ضبط

۳۶۸

ضبطہ۔ المضبط۔ کوڑنے والا۔ شیر۔ المضبوط۔ دارتھی۔ ضبطہ (ض) ضبط۔ انھیں سے تیز دیکھنا۔ الضبط والضبط۔ من الذناب: تیز نظر بھیرا۔ ضبطت (ن) ضبطنا علی الغنیم: قرضدار پر سختی سے تقاضا کرنا۔ ضبطت (س) ضبطنا أنفسہ: بی کا بڑا تادور تھلا۔ الضبطن: بخیل۔ الضبطن: شریہ: کہا جاتا ہے "ہو ضبطن شہر" وہ برائی کا ساقی ہے یعنی شر ہے۔ الضبطن: سخت مزاج۔ فرجی۔ الضبطن: سخت مزاج۔ گراں تن۔ گراں جان۔ بڑول۔ بوقوف۔ ضبطت (ض) ضبطنا وضبطنا: لازم ہوتا۔ غالب ہوتا۔ قوی ہوتا۔ خوب حفاظت کرنا۔ الضبط: مضبوط کرنا۔ الکتاب: صحیح کرنا۔ اعراب لگانا۔ علیہ: گرفتار کرنا۔ ضبط (س) ضبطنا: دونوں ہاتھوں سے کام کرنا۔ صفت ضبط مؤنث ضبطاء۔ ج ضبط۔ ضبطت: الأرض: زمین پر بارش ہونا۔ تضبط: زبردستی گرفتار کرنا۔ تضبط الضمان: جوتنا ہونا۔ تھوڑی سی گماں کھانا۔ انضبط: قابو میں آنا۔ مضبوط ہونا۔ الضبط: ہم۔ روک۔ گرفتاری۔ الضباط: فا۔ قوی۔ ہوشیار۔ حاکم۔ فوج کا جنرل۔ ج ضباط () والضباط: عند العلماء وہ قاعدہ کیہ جو اپنے سارے جزئیات پر مضبوط ہو۔ الضباط والأضبط: شیر۔ ضبط (ف) ضبطنا وضبطنا: ضبطنا البعیث: اونٹ کا تیز دوڑنا اور اپنے پہلوؤں کو پھیلاتا۔ القوم الضلع: صلح کی طرف ماں ہونا۔ ضبطنا: مارنے کیلئے ہاتھ بڑھانا الزجل: علم کرنا۔ علی فلان:	_____ ضبطنا التاز الغنم: آگ کا لکڑی کو خیر کرنا۔ ضبطنا: رودر رو مقابلہ کرنا۔ گل دینا۔ بڑا بھلا کرنا۔ انضبط: لوثہ: راکھ کے رنگ کا ہوجانا۔ ضبطنا: ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ بڑا بھلا کرنا۔ الضبطاء: مکان کہ جس میں آگ کا اثر ہو۔ الضبط: راکھ۔ المضبط: سنگستان کا پتھر۔ ضبطنا (ن) ضبطنا: تراور گد ر کجوروں کو ملانا۔ ضبطنا: فحشہ آور چیزوں کو یاد دلانا۔ الضبط: فحشہ۔ غضب۔ ضبطت (ن) ضبطنا: الحجارة: نہ بہہ رکھنا۔ الکتاب: جمع کرنا یا بنڈل بنانا () ضبطنا ضبطنا: الفوس او المقید: ہاتھوں کو جمع کرنا اور کوڑنا۔ ضبط: الشی: جمع کرنا۔ الضبط: کلڑی کی بنی ہوئی چیز جس پر کھال منڈھی ہوئی تھی اور جس کے اندر داخل ہو کر جنگ کے لیے قلعہ کے قریب پہنچتے تھے۔ ج ضبط: فقر۔ فوس ضبط: گھوڑا تام الحلقہ۔ الضبط والضبط: جنگلی اخروٹ کا درخت۔ الضبط: بغل۔ الضبط والضبط: کتابیں۔ ان کا واحد نہیں۔ الضبط: خلقت کی مضبوطی۔ الضبط والضبط: کتابوں کا بنڈل یا تھروں کا گٹھا۔ ج ضبطنا۔ الضبط: کتابوں کا بنڈل یا تھروں کا گٹھا۔ ج أضبط۔ الضبط: لوگوں کی جماعت۔ جمع کہتے ہیں "زأینہم یخزجون من المکان ضبطنا ضبطنا" میں نے ان کو دیکھا کہ لوگ جوق در جوق نکل رہے تھے۔ الضبط: زیادہ کوڑنے والا۔ الضبط والضبط: سخت۔ شیر۔ الضبط: لوط کی مانند ایک درخت۔ واحد	کہ کھلے۔ سختی سے نچوڑ کر دوہنا۔ دروازے کا لوہے یا لکڑی کا ماسلا۔ ج ضبطنا۔ الأضبط: من الضبط: وہ اونٹ جس کو (ضبط) کی بیماری لاحق ہو۔ مؤنث ضبطاء۔ ج ضبط۔ الضبط: قہن میں ٹھک سوراخ والی بکری۔ ضبط: السیف: گوار کی دھار۔ الضبط: کرا۔ ج ضبطنا۔ الضبط: ایک قسم کی خوراک جو گھی اور گجور کے شیر سے بچوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ أرض مضبط: زیادہ گودہ والی زمین۔ ج مضبط۔ المضبط: بخیل۔ ضبطا (ف) ضبطنا وضبطنا: الزجل: زمین یا درخت سے چٹنا۔ صفت ضبطن۔ الضبط: فکاری کا قریب دینے کے لیے چھپنا _____ ہا الأرض: چٹنا۔ _____ الیہ: پناہ لینا _____ منہ: شرم کرنا۔ _____ علی القوم: اچانک آجانا۔ أضبطا: الشی: چھپانا۔ _____ علیہ: خاموش رہنا اور چھپانا۔ _____ ما فی یدہ و علیہ: پکڑے رکھنا۔ أضبطا أضبطا: منہ: چھپنا۔ الضبط: راکھ۔ المضبط: چھپنے کی جگہ۔ ج مضبطی۔ ضبطت (ض) ضبطنا وضبطنا: الشی و _____ علیہ: سختی سے بھڑکنا۔ ضبطنا: ہمہ عمل کرنا۔ ضبطت علیہ: بار بار جانا۔ الضبط: بعض۔ ج ضبطت واضطبت۔ الضبطات: شیر کے بچے۔ الضبط والضبط والضبط: شیر۔ المضبط: چگل اور شیر کے بچے۔ مضبط۔ واحد۔ ضبطت (ف) ضبطنا وضبطنا: الخیل فی وردھا: گھوڑے کا دوڑنے کی حالت میں جوف سے آواز نکالنا۔ () ضبطنا: الأزنب والثقلب والقوس: آواز کرنا
---	---	---

التَّجْمُ: ستارہ کا وہ بے کی طرف ساکل ہوتا۔
أَضَجَعَهُ: پہلو کے بل لیٹنا۔ الشَّقُّ: پست کرنا۔ الحَرْفُ: حرف کا سروس کی طرف اٹال کرنا۔ جَوَّالِقَةُ: بھری ہوئی گون کو خالی کر دینا۔

ضَجَعَتِ الشَّمْسُ: غروب کیلئے ساکل ہونا۔
وَتَضَجَّعَ لِحَنِ الْأَمْرِ: کوتاہی کرنا۔
ضَاجَعَهُ: ساتھ لیٹنا۔ صفت مُضَاجِعٌ: کہا جاتا ہے "ضَاجَعَةُ الْهَيْمِ" یعنی اس کو عم لازم ہے۔

تَضَاجَعَ عَنِ الْأَمْرِ: غفلت کرنا۔
الضُّجْعُ: مہ۔ ہر وہ چیز جس سے کپڑا دھویا جائے۔ صابون۔

الضُّجْعَةُ: صابون کا ایک ٹکڑا۔ ایک ہار کا سونا۔ رائے کی کمزوری۔ آرام۔ راحت۔

الضُّجْعُ: جھکاؤ۔ کہا جاتا ہے "ضَجَعَهُ الْوَيْ" یعنی اس کا میلان میری طرف ہے۔

الضُّجْعَةُ: پہلو لیٹنے کی ہیئت۔ کالی۔
الضُّجْعَةُ: رائے کی کمزوری ()۔ و

الضُّجْعَةُ وَالضُّجْعِيُّ وَالضُّجْعِيُّ وَالضُّجْعِيَّةُ وَالضُّجْعِيَّةُ: بہت زیادہ لیٹنے والا۔ کالی۔

الضُّجَاعُ: قا۔ لیٹنے والا۔ کالی۔ وادی کا سوز۔ وادی کا جلوان۔ بیوقوف۔ مِنَ النَّوَابِ:

بے برکت جاور۔ مِنَ التُّجُومِ: غائب ہونے کی طرف مائل ستارہ۔ ج ضَوَّاجِعُ:

زَجُلٌ ضَاجِعٌ بہت زیادہ لیٹنے والا۔ کالی۔ کہا جاتا ہے "أَزَاكُ ضَاجِعًا إِلَيْهِ" یعنی میں تم کو اس کی طرف مائل دیکھتا ہوں۔

الضُّجَاعَةُ: مؤنث ضَاجِعٌ: نمر کا دھان۔ نیلہ۔ ج ضَوَّاجِعُ () وَالضُّجَعَاءُ: زیادہ کھریاں۔

الضُّجُوعُ وَالْمَضُّجُوعُ: کمزور رائے والا۔ الضُّجُوعُ: ٹھگ جو لے جانے والے کو جھکا دے۔ کشادہ ذول۔ پائی کی زیادتی سے آہستہ آہستہ چلنے والا بادل۔

الضُّجَاعُ: ساتھ لیٹنے والا۔ مؤنث ضَجَعَتِ الشَّمْسُ: غروب گون۔ ج ضَاجِعٌ:

الضُّجَاعُ: ٹھگ جو لے جانے والے کو جھکا دے۔ کشادہ ذول۔ پائی کی زیادتی سے آہستہ آہستہ چلنے والا بادل۔

الضُّجَاعُ: ساتھ لیٹنے والا۔ مؤنث ضَجَعَتِ الشَّمْسُ: غروب گون۔ ج ضَاجِعٌ:

الضُّجَاعُ: ٹھگ جو لے جانے والے کو جھکا دے۔ کشادہ ذول۔ پائی کی زیادتی سے آہستہ آہستہ چلنے والا بادل۔

ضَجَا يَضْجُو ضَجْوًا إِلَيْهِ: پناہ لینا۔ ضَمِنَهُ النَّارُ: آگ کا جھون دینا اور ختم کر دینا۔

أَضْمَى الشَّقُّ: اٹھانا۔ روكنا۔ عَلَيْهِ بَحْ مَدَى: کے لیے جا پہنچنا۔

الضَّضَابِيُّ: قا۔ راکھ۔ الضُّبُورَةُ: جند الغمامة: تبا کو کیلئے چڑے کا بڑھ اور صحیح لفظ الضُّبُورَةُ ہے اور ممکن ہے کہ یہ ظنبتیہ کی تحریف ہو۔

المُضْطَبَّةُ: جو بھل کی کمی ہوئی روٹی۔ المَضْطَبَّةُ: جو بھل میں روٹی پکانے کا گڑھا۔ ضَبَّحَ (ض) ضَبْحًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا: شور مچانا۔

أَضَجَّ اضْجَاجًا: القَوْمُ: جینا۔ شور مچانا۔ ضَجَّجَ الضُّجْلُ: جانا اور مائل ہونا۔

الظَّالِمُ وَنَحْوُهُ: زہر دینا۔ ضَاخَجَ ضَجَّجًا وَضَجَّجًا: جھکا کرنا اور شور مچانا۔

الضُّخَّةُ: چچا دیکار۔ شور۔ الضُّجَّاجُ: ہاشمی رات۔ ایک قسم کا مہرہ۔

الضُّجَّاجُ: گوند جو کھلا جاتا ہے۔ ہر اس درخت کا پھل جو پرندوں یا درندوں کو بلور زہر کے دیا جائے۔

الضُّجُوجُ مِنَ النَّوْقِ: دودھ دوہنے وقت چلانے والی اونٹنی۔ الضُّجَّاجُ: بہت شور مچانے والا۔

ضَجَّجُوا (ض) ضَجَّجًا وَضَجَّجًا: مٹ گول ہونا۔ بے قرار ہونا۔ زچ ہو جانا۔ صفت ضَجَّجٌ:

أَضَجَّجُهُ: ستانا۔ زچ کر دینا۔ بے قرار کر دینا۔ ٹھگول کر دینا۔

الضُّجَّجُ: غم کی وجہ سے ٹھگول۔ بے قراری۔ الضُّجَّجُ: ٹھگ مکان۔

الضُّجَّجَةُ: بے قراری۔ ٹھگولی۔ الضُّجَّجُورُ وَالضُّجَّجَةُ: بہت بے قرار۔ بہت ٹھگول۔

الضُّجَّجُورُ: بے قرار کرنے والا۔ ٹھگول کرنے والا۔ ج ضَوَّاجِعُ وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا:

ضَجَّجَ (ض) ضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا: بے قرار کرنے والا۔ ٹھگول کرنے والا۔ ج ضَوَّاجِعُ وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا:

ضَجَّجَ (ض) ضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا: بے قرار کرنے والا۔ ٹھگول کرنے والا۔ ج ضَوَّاجِعُ وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا:

ضَجَّجَ (ض) ضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا: بے قرار کرنے والا۔ ٹھگول کرنے والا۔ ج ضَوَّاجِعُ وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا:

ضَجَّجَ (ض) ضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا: بے قرار کرنے والا۔ ٹھگول کرنے والا۔ ج ضَوَّاجِعُ وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا:

ضَجَّجَ (ض) ضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا: بے قرار کرنے والا۔ ٹھگول کرنے والا۔ ج ضَوَّاجِعُ وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا:

ضَجَّجَ (ض) ضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا: بے قرار کرنے والا۔ ٹھگول کرنے والا۔ ج ضَوَّاجِعُ وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا:

ضَجَّجَ (ض) ضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا: بے قرار کرنے والا۔ ٹھگول کرنے والا۔ ج ضَوَّاجِعُ وَضَجَّجًا وَضَجَّجًا:

بَدْوًا كَلِيَةً لِطَهْرِ أَهْمَانًا۔ ضَبَّعَ الزُّجْلُ: بزدل ہونا۔ ضَبَّعَتِ النَّخِيلُ وَالْإِبِلُ: مجال میں پہلووں کو پھیلا دینا۔

ضَابِقَةٌ مُضَابِقَةٌ: ایک دوسرے کی طرف گوار کا ہاتھ پرحانا۔ الزُّجْلُ: ہمالیہ کرنا۔

إِضْطَبَعَ: بازو ٹھاکر کرنا۔ دائی ہنبل سے چادر کو نکال کر بائیں کا دھمے پڑوانا۔ الشَّقُّ: ہنبل میں لیٹنا۔

الضُّبَعُ وَالضُّبْعُ: جو۔ لفظ مؤنث ہے۔ نرو ماہ دو نوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ج ضَبَّعًا وَأَضْبَعًا وَضْبَعًا وَضُبُوعًا وَضَبَّعًا وَضَبَّعًا اور تفسیر ضجع کی اَضْبَعُ۔ خلاف قیاس اور کبھی ماہ کے لیے ضْبَعَةٌ کا استعمال کیا جاتا ہے اور دو قسمیں مشہور ہیں۔ ضجع مخططة (دھاری دار) ضجع رقطاء (خال دار) اور ضجع رقطاء مخططة سے بڑا اور قوی ہوتا ہے۔

الضُّبَعُ: بازو کا وسط۔ بازو۔ ہنبل۔ الضُّبَعُ وَالضُّبَعُ وَالضُّبَعُ: جانب۔ کنارہ۔ ج اَضْبَعُ:

الضُّبَعُ: قسط کا سال۔ الضُّبَعُ وَالضُّبَعُ: دُعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ الضُّبَعَانُ: تریجو۔ شقی۔ ضَبَّعَانُ: ضَبَّعَانَانُ

لَطَفٌ ہے۔ ج ضَبَّعَيْنِ۔ مؤنث ضَبَّعَانَةٌ ج ضَبَّعَيْنِ وَضَبَّعَانَاتٍ:

الضُّبَاعِ: قا۔ مِنَ النَّخِيلِ وَالْإِبِلِ: تیز دوڑنے والا۔ ج ضَبَّعُ:

ضَبَّعَ (ض) ضَبَّعًا وَضَبَّعًا: ٹھگ ہونا۔ صفت ضَبَّعٌ: عَنَّةُ الْهَدْيَةِ: ہدیہ کو روک دینا۔ مع کرنا۔ ضَبَّعَتْ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

أَضْبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔ الضُّبَعُ: ہنبل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

أَضْحَى. چاشت کے وقت میں داخل ہوتا۔
 أَضْحَى يَفْعَلُ كَذَا: چاشت کے وقت ایسا کرتا
 تھا یا مطلقاً ایسا کرتا تھا (یہ کلمہ ان جیسے جملوں میں
 کماں جیسا عمل کرتا ہے)۔ الشئ: ظاہر
 کرنا۔ عَنِ الْأَمْرِ: ذور رہنا۔ کہا جاتا ہے
 "أَضْحَى اللَّهُ ظِلِّكَ" یعنی اللہ تیرے سائے کو
 ذور کر دے۔ مراد یہ ہے کہ تجھے ہلاک کر دے۔
 تَضَحَّى تَضَحَّى: چاشت کے وقت کھانا۔
 چاشت کے وقت تک سونا دھوپ کھانا۔
 اسْتَضْحَى اسْتَضْحَى لِلشَّمْسِ: موسم
 سرما میں دھوپ کھانا۔
 الضحَاء: چاشت کا وقت۔
 الضحوة الضحوة: چاشت کا وقت۔
 الضحى: چاشت۔ آفتاب۔ بیان۔ کہا جاتا ہے
 "قال الكلامه ضحى" یعنی اس کے کلام کے لیے
 بیان نہیں۔
 الضحيان: چاشت کے وقت کھانے والا۔
 مؤنث ضحيانة۔
 الضحیة: دن کا بلند ہونا۔ قربانی کی بکری۔ زبیحہ۔
 ج ضحایا۔
 الأضحاة: قربانی۔ ج أضحی۔
 الأضحیة الاضحیة: قربانی۔ ج أضحی۔
 یؤم الأضحی: قربانی کا دن۔ الأضحی من
 الخیل: سفید سیاہی مائل گھوڑا۔ مؤنث
 ضحیاء۔
 الضاحی: قا۔ دھوپ کھانے والا۔ ضاحی
 الجلد: جسم کا کھلا ہوا حصہ۔
 الضاحیة: مؤنث ضاحی۔ ہر شے کا کھلا ہوا
 حصہ۔ ج ضواح۔ ضواحی البلدة: اطراف
 شہر۔ ضواحی الحوض: حوض کے اطراف۔
 کہا جاتا ہے "فعلت ضاحیة" یعنی اعلان کیا۔
 شجرة ضاحیة العلیل: بے سایہ درخت۔
 یؤم اضحیان: بے بادل کا دن۔
 لیلة اضحیانة و اضحیة: چاندنی رات۔
 أرض مضاخاة: سورج کے سامنے کی زمین یا
 جس سے سورج غائب ہوتا ہے۔
 ضح(ن) ضحأ: گھانا۔ پانی گرانے۔
 ضحّت العین: آنسو بہانا۔

چمکتا ہوا پتھر۔ کہا جاتا ہے "لہ زائی ضاحک" یعنی
 ظاہر ہے جس میں کوئی التباس نہیں۔
 الضاحكة: مؤنث ضاحک۔ دانت جو پختے
 ہوئے ظاہر ہو جائیں۔ ج ضواحک۔ کہا جاتا ہے
 "الفتور عن ضواحک" اس نے ہنسنے میں دانتوں کو
 ظاہر کیا۔
 الضحكة والضحكة والضحاک
 والضحوک والمضحاک: بہت زیادہ ہنسنے
 والا۔ الضحوک والضحاک: درمیان۔
 راستہ۔ الضحوک کی جمع ضحک۔
 الضحكة: جس آدمی پر لوگ ہنسیں۔
 الضحكة: بولوگوں پر ہنسے۔
 الأضحوكة: وہ چیز جس پر ہنسی آئے۔ ج
 أضاحیک۔
 ضحل(ف) ضحلاً: الغدیو: تالاب کلابی کم
 ہونا۔ الماء: پانی کلابا ہو جانا۔ کہا جاتا ہے
 "مما أضحل خبیوک" یعنی کس چیز نے تمہاری
 خیر و برکت کو کم کر دیا۔
 الضحل: پیاب پانی۔ ج ضحال و أضحال و
 ضحول۔
 المضحل: وہ جگہ جہاں پانی کم ہو۔
 ضحاً یضحو ضحواً و ضحواً و ضحیاً
 الزجل: دھوپ کھانا۔ الشئ: دھوپ کا
 لگنا۔ الضحی: ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "ضحاً طلہ" یعنی سرگیا اور یہ ان کے قول
 "شجرة ضاحیة" (خیر سایہ دار درخت) سے
 ماخوذ ہے۔
 ضحی یضحی ضحواً و ضحیاً: دھوپ لگنا۔
 دھوپ کھانا۔ کھل جانا۔ ضحیت اللیلة: بے
 بادل کا ہونا۔
 ضحی تضحیة: فلاناً: چاشت کے وقت
 کھانا کھانا۔ بالشاة: بقر عید کے زمانہ میں
 چاشت کے وقت ذبح کرنا یا لقتاذیح کرنا۔ الغنم:
 چاشت کے وقت چرانا۔ الزجل: فد یہ ہو
 جانا۔ عَنِ الْأَمْرِ: دیر کرنا۔ جلدی نہ کرنا۔
 إِلَیْهِ: بیان کرنا۔ ظاہر کرنا۔
 ضاحی مضاخاة: الزجل: چاشت کے وقت
 آتا۔

الْمَضْطَجِع: خواب گاہ۔ مَضْجِعُ الْغَيْثِ:
 بارش کی جگہ۔
 ضَجْم(س) ضَجْمًا الْفَمُّ او الْعُنُقُ: منڈیا
 گردن کا ٹیڑھا ہونا۔ جس کا ٹیڑھا ہو جائے اس کو
 اضجم اور مؤنث کو ضجماء کہتے ہیں۔ کہا جاتا
 ہے "لین فمہ ضجم" یعنی اس کے منہ میں کچی
 ہے۔
 تَضَاجَمَ الْفَمُّ: منہ کا ٹیڑھا ہونا۔ الْأَمْرُ
 یَتَنَجَّمُ: مختلف نہ ہونا۔
 الضَّجُّ: آفتاب کی روشنی۔ جس پر آفتاب کی
 روشنی پڑے۔
 ضَحْضَحٌ و تَضَحَضَحٌ: السراب:
 سراب کا متحرک ہونا اور چمکتا۔ ضَحْضَحَ
 الْأَمْرُ: ظاہر ہونا۔
 الضحضح: تھوڑا پانی۔
 الضحضاح: تھوڑا پانی یا نایاب پانی۔ بہت
 آونٹ۔
 ضحک(س) ضَحْکًا و ضِجْکًا و
 ضِجْکًا و ضِجْکًا: ہنسا۔ کہا جاتا ہے "ضحک
 منہ و بہ و علیہ" اس نے کشادہ روئی کی اس
 طرح پر کہ دانت ظاہر ہو گئے۔ الْقُرْدُ: بندر کا
 آواز کرنا۔ السحاب: بادل کا چمکتا
 الظریق: راستہ کا ظاہر ہونا۔ ضحکت
 الْأَرْضُ عَنِ النَّبَاتِ: آگاہا۔ الضیب
 یزایبہ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔ طَلَعِ التَّخْلَةُ:
 درخت ٹرا کا ٹھونڈ لگانا (ضحکاً)
 الزجل: تعجب کرنا۔
 ضاحكة: ایک دوسرے کے ساتھ ہنسا۔ ہنسی
 میں غالب آنا۔
 أضحكة: ہنسا۔ أضحک الحوض: لبریز
 کر دینا۔
 تَضَحَّکَ و تَضَاحَکَ و اسْتَضَحَّکَ: ہنسا۔
 و تَضَاحَکَ الزَّجْلُ: بتکلف ہنسا۔ تَضَاحَکَ
 الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو ہنسا۔
 الضحک: دم۔ سفید دانت۔ گلی۔ جھماک۔
 برف۔ درمیان راستہ۔ تعجب۔ شہد یا شہد مع موم
 کے۔ کجور کا ٹھونڈ غلاف سے نکلا ہوا۔
 الضاحک: قا۔ ہنسنے والا۔ پھاڑ میں نماز سفید

المطرقة تصان - ج مضار.

ضرباً (ف) ضرباً الشئ: خشي هو - جعبنا.

انضرت انضراً - الابل: اوتنوں میں موت کا واقع ہونا۔ الشجرة: درخت کا خشک ہونا۔

ضرب (ض) ضربنا - الشئ: محرك ہونا۔

الغزق: رگ کا پھرنا۔ الجرح او

الضرب: زخم یا دائرہ میں درد ہونا۔

العقرب: بچھو کا ڈک مارنا۔ اللیل:

رات طویل ہونا۔ الزمان: گزرتا۔

القطير: پرندہ کا خوراک کی تلاش میں جانا۔

ه: مارنا۔ التبدد: سرفی لگانا۔

ضرب العیمة: خیمہ قائم کرنا۔ ضربت

العنكبوت نسیجها: کڑی کا جالنا۔ ضرب

الاجل: مدت مقرر کرنا۔ المثل: مثال

بیان کرنا۔ الدزهم: درہم پر نم لگانا

الخاتم: انگوٹھی ڈھالنا۔

الصلاة: نماز قائم کرنا۔ الشئ بالشئ:

لانا۔ الحاسب كذا: جانی كذا: ضربنا

الجزية عليهم: جزیہ مقرر کرنا۔

عليهم الذلة: ذلت کو لازم کرنا۔ له

سهماين ماليه: مال سے حصہ مقرر کرنا۔

على يده: بروک دینا۔ القاضی على

يده: قاضی کا کسی کو تعریف سے منع کر دینا۔

ضرب بنفسه الارض: اقامت کرنا۔ سفر کرنا

في الماء: حیرنا۔ بينهم: فساد کرنا

دنا۔ فلانا عن فلان: روک دینا۔ منع کر

دنا۔ يديه: اشارہ کرنا۔ عن فلان

كذا: روک لینا۔ الدهر يفتننا: جدا کر دینا

بالفداح: حیروں کو گھمانا۔ على

أذيه: سننے سے منع کرنا۔ على

المكتوب: مہر لگانا۔ في التوب: بھگ

بجانا۔ إليه: مائل ہونا۔ كما جاتا ہے

”ضربت عنه صفحا“ یعنی میں نے اعراض کیا

اور اس کو چھوڑ دیا۔ ”ضربت عنه جزوی“

میں نے اس سے بے رغبتی کی اور اس سے باز رہا

و ”ضرب يديه الارض“ یعنی پردی کی اور

خوف کیا و ”ضرب في الارض ضربنا و

أصبره. تكليف پانچنا۔ ه على الأمر:

مجبور کرنا۔ اصبره: بہت قریب ہونا۔ الیہو

عليه: جلدی کرنا۔ اصغر بعدو: کچھ تیزوڑنا

۔ على السبر الشديد: تیز پلے میں مہر کرنا

۔ الرجل: سوگن کر کے لانا۔ اندھا ہونا۔

تصبر - تصان پانچنا۔

إضطره إلى كذا: محتاج کرنا۔ مجبور کرنا۔

أضطره: مجبور کیا جانا۔

إستصبر به: تصان پانچنا۔

الضرب والضرب والضرب: تصان۔ سختی۔ سختی

بدالی۔ ج اضربار۔ اور عوام کے استعمال میں

ضربہ چھوٹی چوٹی کے معنی میں ہے مگر صحیح لفظ

(ذکر ہے)۔

الضرب والضرب: سوگن کر کے لانا۔ كما جاتا ہے

”زجل ضرب اضرب“ یعنی مصیبتوں میں ایک

مصیبت ہے۔

الضرب: سختی۔ قحط۔ جانی وبال تصان۔

الضرب: جانی وبال تصان۔

الضرب حاجت۔ تکالیف۔ پستان کی

بز۔ پستان۔ حمن۔ مال کثیر ضرب المرأة: سوگن۔

ج ضرب الير: كما جاتا ہے ”بينهم ذاء الضراب“

یعنی ان کے درمیان حد ہے۔ الضربان: بچل

کے دونوں پاٹ۔

الضرب: تصان پانچنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے

اسم حسنیٰ میں سے ہے۔

الضرب والضرب والضرب والضرب

والضرباء: حاجت۔ الضرباء: یعنی ضرب۔

الضرباء: اندھا۔ لاغر مریض۔ تصان زده ج

أصبراً أو اضرباً مؤثراً ضرباً ج ضرب الير۔

الضرب الير: غیرت۔ مخالفت۔ صبر۔ داوی کا تارا۔

نفس بقیہ جسم صابر۔ كما جاتا ہے ”إنه ضرب يرو ذو

ضربو على الشئ“ یعنی جب کہ صابر ہو ”ناقة

ذات ضربو“ یعنی دریں میں تھکنے والی۔

الضربو: جس پر انسان کو مجبور کیا جائے۔

جس میں اختیار مسلوب ہو اور منطقیوں کی

اصطلاح میں بمعنی بدیہی۔

التصبر والتصبر۔ بدالی۔

إنضج الماء: گرتا۔

المضج: بیکاری۔

ضجرت (ف) ضجرتاً: آگہ نکال لینا۔

ضجرت (ک) ضجرتاً و ضجرتاً: موٹا ہونا۔

سفت ضجرت ج ضجرت مؤثراً ضجرت ج

ضجرتاً۔

ضجرتاً: موٹا ہونا۔

الضجرت: ہرٹے کا بڑا۔

الأضجرت: موٹا۔ زیادہ موٹا۔

المضجرت: بہت مارنے والا۔ سردار۔ عالی

مرتب۔

ضد (ن) ضداً فلاناً في الضمومة:

جھڑے میں غالب آنا۔ ضده عن كذا: نری

سے ہٹانا۔ باز رکھنا۔ القربة: خشک کو بھر

دینا۔

ضادة مضادة: مخالفت کرنا۔

أضده: غھبناک ہونا۔ ضد کرنا۔

تضاداً تضاداً: ایک دوسرے کی مخالفت

کرنا۔

الضد: مخالفت۔ مثل ونظير دشمن ج اضداد

و ضد۔

الاضداد: ایسے کلمات جو معانی متضاد پر

ولایت کریں جیسے یہی لفظ ضد کہ اس کے معنی

مخالف اور نظیروں کے ہیں۔

الضديد: ضد۔ نظیر۔ كما جاتا ہے ”لاضديد

له“ یعنی اس کا کوئی مثل نہیں۔

ضدى بضدى ضدى: غلیبہ: غھبناک

ہونا۔ سفت ضاد مؤثراً ضاداً ج ضو ادو

ضاديات۔

ضادة مضادة: مخالفت کرنا۔

أضدى أضداً الإناء: برتن کو بھرنے۔

ضرت (ن) ضرتاً و ضرتاً: فلاناً و لفلاناً:

تصان دینا۔ ه إلى كذا: مجبور کرنا۔

ضرت بضرتاً: اندھا ہونا۔

ضارة ضرتاً او مضارة تصان دینا۔ مخالفت

کرنا۔ تكليف پانچنا۔ ضاراً مؤثراً: اپنی بیوی پر

سوگن لانا۔

ضرتاً تضرتاً: بہت زیادہ تصان دینا۔

مصرع ثانی کا آخری جز۔ ج ضروب و أضروب وأضروب۔ و زهْم ضروب: ٹپ لگا ہوا درہم۔ ذاز الضروب: کمال۔ الضروب والضروب۔ سفید گاڑھا شد۔ الضربة اسم مرة۔ وفتحاً واحدة۔ کہا جاتا ہے "لا أخذت ما لي عليك الأضربة واحدة" یعنی میرا مال جو تمہارے ذمہ ہے اس کو ایک ہی دفعہ لوں گا۔ آفت۔ فساد۔ الضربان۔ مہ۔ ضربان الذہر: زمانے کے حوادث۔ الضروب والضروب۔ مارنے والا۔ الضروب۔ زیادہ مارنے والا۔ الضراب۔ فاپت جگہ جس میں درخت ہوں۔ وادئ کے مثلاً۔ تاریک رات جس کی تاریکی محیط ہو۔ ج ضواب۔ القطر الضواب: خوراک تلاش کرنے والے پرندے۔ الضرب۔ مارنے والا۔ ج ضربات۔ پٹا ہوا۔ ج ضربی۔ قسم۔ شکل۔ حصہ آدی کی صفت۔ برف پالاج ضواب۔ الضربة۔ طبیعت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "هذه ضربة التي ضرب عليهما" یعنی یہ اس کی عادت ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تلوار سے مارا ہوا۔ بدن کا وہ حصہ جہاں مارا جاتا ہو۔ جزیہ من السيف: دھار۔ ج من الضوف و نحوه: اڈن یا روئی کی پٹی۔ ج ضراب الضروب۔ بارے کی جگہ یا وقت۔ اصل والضروب: تلوار یا اس کی دھار۔ ہڈی جس میں گودا ہو۔ ج مضارب۔ المضروب والمضروب۔ مارنے کا اوزار۔ زخم۔ ہمت مارنے والا۔ المضروب: بڑا خیر۔ ج مضارب۔ المضروب والمضربة من الحيات: غیر متحرک سانپ۔ مضربة السيف ومضربة: تلوار کی دھار۔ بساط المضرب: سلاہوا بھجوتا۔ المضربة والى رضائي۔ ضرب (ن) ضرباً الشئ: پھاڑنا الضوب بالدم: خون میں تھینا۔ الشئ	ضرباناً تجارت یا غزوہ کے لیے سفر کرنا۔ ضروب (س) ضرباً۔ الثبات: نہایت کا سر دی یا ہوا سے مرجھا جانا۔ ضربت الأرض: زمین پر کرا پڑنا۔ ضربة۔ ہمت مارنا۔ الشئ بالشئ: بلانا المظلة بالخيزب: پھتری کو دھاگے سے مضبوط کرنا۔ ه التخاذ المضربة: ورزی کار رضائی کو سینا۔ ضربت عينه: آنکھوں کا دھس جانا۔ ضرب بينهم: بھڑکانا ه لى الحروب: برا گینت کرنا۔ ترغیب دینا۔ ولاد کرنا۔ ضربه مضاربة و ضرباً۔ ایک دوسرے پر تلوار مارنا۔ مارنے میں بڑھ جانا۔ ایک دوسرے کو مارنا۔ ضاربه و ضارب لہ فی الضال و بالضال: کسی کے مال سے تجارت کرنا اور تلخ میں شریک ہونا۔ اضرب فی المكان: اقامت کرنا۔ مرجھا کرنا عنه: اعراض کرنا۔ القوم: پالے سے ڈھک جانا۔ الخيزب: پکنا۔ کہا جاتا ہے "اضرب جأشاً لا فر كذا" یعنی اس نے فلاں کا ہر اپنے آپ کو مستعمل کر لیا۔ تضرب الشئ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ تضارب القوم: ایک دوسرے کو مارنا۔ اضطرب: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ ایک دوسرے کو مارنا۔ الأثر: غلظ پذیر ہونا۔ القوم: ایک دوسرے کو مارنا۔ لہی أفواه: حرد ہونا۔ کہا جاتا ہے اضطرب حبلهم یعنی ان کا کلمہ مختلف و متفرق ہو گیا ۔ من كذا: تنگ دل ہونا۔ فلاں: حصہ مقرر کرنے کا سوال کرنا۔ کہا جاتا ہے "اضطربت خاتماً من ذهب" یعنی میں نے سونے کی انگوٹھی بنانے کے لیے کہا۔ اضطرب: القسل: شد کا سفید اور گاڑھا ہونا۔ الضرب۔ شکل۔ قسم۔ ج اضطراب۔ خفيف بارش۔ کہا جاتا ہے "مظلو ضرب" ایسا آدی جس کی مار کا نشان باقی رہے۔ لہی الغرض۔ فن عروض کی اصطلاح میں شعر کے
--	---

الضُّرَّاحُ: چوتھے آسمان میں ﴿بيت المعمور﴾
 الضُّرْحُ: مہ۔ کمال۔ دُور۔ وحشت۔
 الضُّرْحُ: خراب آدمی۔ بَيْتَةُ ضُرْحٍ: دُور دراز کارا رہ۔
 الضُّرُوحُ مِنَ الدَّوَابِّ: دولت مند مارنے والا جانور۔ قَوْضُ ضُرُوحٍ: زور سے پھینکنے والی کمان۔
 الضَّرِيحُ: دور۔ قبر۔ حَضْرِيحٌ: المَضْرُوحُ وَالْمَضْرُوحِيُّ: شہر۔ لمبے ڈبے کا گدھ۔ المَضْرُوحِيُّ: فیاض سردار۔ سفید چتر۔
 ضَرَسٌ (ض) ضَرَسًا: الشَّيْءُ: ڈاڑھ سے تخت کاٹنا۔ کہا جاتا ہے "ضَرَسَةُ الدَّهْرُ" یعنی زمانہ نے اس پر معیبت ڈالی۔ "ضَرَسَتْهُ المَخْطُوبُ" حواشی نے اس کو کچل دیا۔ ضَرَسَ الجَبْرُ: پتھروں سے کونئیں کا من بنانا۔ الزَّجْلُ: رات تک خاموش رہنا۔
 ضَرَسَتْ (س) ضَرَسًا: الأَسْنَانُ: دانت کھنے ہونا۔
 ضَرَسَةُ الزَّمَانِ: زمانہ کا تخت ہونا۔ ضَرَسَةُ الخُرُوبِ وَالْأَيَّامِ: تجربہ کار کرنا۔
 أَضْرَسَ: العَامِضُ الأَسْنَانُ: تڑھی کا دانتوں کو کٹا کر دینا۔ هُ: رنجیدہ کرنا۔ فَيْحَلْكَلامٍ: خاموش کرنا۔
 ضَارَسَةُ: لڑائی کرنا۔ دشمنی کرنا۔ ضَارَسَ الأُمُورُ: تجربہ کرنا اور پہچانا۔
 قَضَارَسَ القَوْمُ: ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔ ایک دوسرے سے جگ کرنا۔ البِنَاءُ: ناہوار ہونا۔
 الضَّرْسُ: ڈاڑھ کے دانت۔ حِ اضْرَسَ: الضَّرْسُ: تیلہ جس پر چرماند شوار ہو۔ پھر جس سے کونئیں کا من بنایا گیا ہو۔ ہلکی بارش۔ حِ ضُرُوسٌ:
 الضَّرْسُ: تخت مزاج۔ بھوک کی وجہ سے غصہ ناک۔ تجربہ کار۔ مسافر۔ جنگجو۔
 الضَّرُوسُ: مِنَ التَّنُوقِ: وہ آدمی جو دوہنے والے کو کات کھائے۔ حَزْبٌ ضَرُوسٌ: تخت جنگ۔

الضَّرْسِيُّ: پتھر کا من بنا ہوا کتوال۔ ریڑھ کی ہڈی۔ بہت بھوکا۔ حِ ضَرُوسِي:
 الضَّرْسُ: مصیبت زدہ۔ مِنَ الوَشْيِ: وہ کپڑا جس پر دانت کی طرح نقش و نگار بنے ہوں۔ کہا جاتا ہے "لَمِنَ التَّيَاقُوتَةِ تَضْرُسُ" یا قوت میں ناہمواری۔ حِ تَضَارِسُ: تَضَارِسُ الأَرْضِ: زمین میں دانت کے مانند نکل ہوئی بلندیوں۔ الضَّرْسُ ضَمٌّ: شیر۔ زور مند۔
 ضَرَطٌ (ض) ضَرَطًا وَضَرَطًا وَضَرَاظًا وَضَرِيظًا: گوز کرنا۔
 ضَرَطٌ (س) ضَرَطًا: ہلکی ڈاڑھی اور ہارک آبرو والا ہونا۔ صفت اَضْرَطَ۔
 ضَرَطٌ وَأَضْرَطَ: الجَمَازُ: بہت گوز کرنا۔ ضَرَطٌ وَأَضْرَطَ الجَمَازُ: گدھے سے اتنا کام لینا کہ گوز نکل پڑے۔ "ضَرَطٌ وَأَضْرَطَ بِفُلَانٍ" غصے کے طور پر گوز کی آواز سے نکلانا۔
 الضَّرَطُ وَالضَّرُوطُ وَالضَّرُوطُ: گوز کرنے والا۔ زیادہ گوز کرنے والا۔
 الضَّرِيظُ: موٹا۔ کہا جاتا ہے "كَبِشَ ضَرِيظًا نَعِجَةٌ ضَرِيظَةٌ" امثلہ عرب میں سے ہے "الأَخْذُ شَرِيظٌ وَالْقَضَاءُ ضَرِيظٌ بِنَا الأَخْذُ شَرِيظٌ وَالْقَضَاءُ ضَرِيظٌ بِنَا الأَخْذُ شَرِيظًا وَالْقَضَاءُ ضَرِيظًا" یعنی قرض کو لے کر نکل لینا ہے اور ادا کرنے میں گوز کرنا ہے۔
 أَوْذَى التَّبَعِيزُ الأَضْرَطُ: مثال ہے اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو ذلیل و خوار ہو گیا ہو اور سب کچھ ضائع ہو گیا ہو اور جو باقی رہا ہو اس سے کچھ نفع حاصل نہ ہو۔
 أَضْرَطًا وَأَنْتَ الأَعْلَى: مثال ہے قوی کے لیے جو باوجود قدرت کے کمزور سے رہتا ہو۔
 الضَّرَطُ طَوُّ الضَّرِيظِ: گوز۔
 الضَّرِطُمُ: بڑے ہیبت والا۔
 ضَرَعٌ (ن) ضَرُوعًا: مِنَ الشَّيْءِ: قریب ہونا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب ہونا یا غروب ہونے کے قریب ہونا۔
 ضَرَعٌ (ن) ضَرُوعًا: قَوْمَةٌ: سدھانا۔
 ضَرَعٌ (ف) ضَرَاعَةٌ وَضَرِعٌ (س) ضَرَعًا وَ

ضَرَعًا (ك) ضَرَاعَةً: کمزور ہونا۔ إِلَيْهِ: فروتنی کرنا۔ صفت ضَارِعٌ وَضَرِعٌ: حِ ضَارِعٌ غَوْنٌ وَضُرُوعٌ وَضَرَعَةٌ:
 ضَرَعٌ: مِنَ فُلَانٍ: چپکے چپکے قریب آنا۔ ضَرَعَتِ الشَّمْسُ: غروب ہونا یا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ القِدْرُ: ہانڈی کا پکنے کے قریب ہونا۔ ضَرَعُ الرَّؤْبِ: شیرہ کا اچھی طرح نہ پکانا۔
 ضَارَعَةٌ: مشابہ ہونا۔ ضَارَعَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ القِدْرُ: ہانڈی کا پکنے کے قریب ہونا۔
 أَضْرَعَتِ الشَّاةُ: بکری کے تھن کا ظاہر ہونا یا بڑا ہونا۔ صفت ضَرَعَاءٌ وَضُرُوعٌ وَضَرِيْعٌ وَضَرِيْعَةٌ: بچہ کی پیدائش سے پہلے بکری کا دودھ اترنا۔ أَضْرَعُ الرَّجُلِ: ذلیل کرنا۔ لِفُلَانٍ مَا لَأَكْسَى: لمبے مال خرچ کرنا۔ الخُمِيُّ فُلَانًا: کمزور کرنا۔ مثال ہے الخُمِيُّ أَضْرَعَتِنِي لِلنَّوْمِ اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو حاجت کے وقت زلت برداشت کرے۔ أَضْرَعَتَهُ الحَاجَّةُ إِلَى فُلَانٍ: مجبور کرنا۔ تَضَرَعٌ: ذلیل ہونا۔ چپکے چپکے قریب آنا۔ إِلَى اللّٰهِ: عاجزی سے دعا کرنا۔ الطَّلُ: سائے کا سٹنا۔
 قَضَارَسَ: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ اِمْتَضَرَعٌ: لُغَةً: اٹھکاری کرنا۔ ذلیل ہونا۔ الضَّرْعُ: تھن۔ حِ ضُرُوعٌ:
 الضَّرْعُ: مثل۔ رسی کی لٹ۔ حِ ضُرُوعٌ:
 الضَّرْعُ: مہ۔ کمزور۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ضَرَعٌ وَقَوْمٌ ضَرَعٌ"
 الضَّرَاعُ: لاغر کمزور چھوٹا۔ الضَّرْعَاءُ وَالضَّرِيْعَةُ: مِنَ الشَّيْءِ وَالتَّبَعِيزِ: بڑے تھن والی۔ الضَّرُوعُ: بڑے تھن والی۔ عاجز و ذلیل۔ الأَضْرَعُ: لاغر کمزور چھوٹا۔ الضَّرَاعُ: مشابہ۔ اصل میں سے ایک فصل ہے جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے اور باقی کے سینے پر حرف (الہن) میں سے ایک حرف بڑھانے سے بنتا ہے۔ علم عروض کی ایک

<p>شركاء پائی لیتے ہوئے جھگڑا کرنے والا۔ ضَعْفَعَةٌ: زمین تک ڈھاڑنا۔ تَضَعُّعٌ: فروتنی کرنا۔ ذلیل ہونا۔ ضعیف ہونا۔ مریض یا غم کی وجہ سے ڈبلا ہونا۔ مَالُهُ: کم ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَضَعُّعٌ بِهِ الذَّهْرُ" یعنی زمانے نے اس کو ذلیل کر دیا۔ الضَّعْفُوعُ وَالضَّعْفُاعُ: کمزور۔ بغیر رائے اور تدبیر کا آدمی۔ الضَّعْفُوعَةُ: مہ۔ شدت۔ فروتنی۔ خاکساری۔ ضَعْفَةٌ (ف) ضَعْفًا: زنج کرنا۔ ضَعْفٌ (ن) ضَعْفًا وَضَعْفًا وَضَعْفًا (ک) ضَعْفًا وَضَعْفًا: کمزور ہونا۔ ضَعْفٌ (ف) ضَعْفًا: القَوْمُ: زیادہ کرنا۔ الشَّيْءُ: دوچندر کرنا۔ ضَعْفَةٌ: دوچندر کرنا۔ کمزور کرنا۔ ضَعْفُ الْحَدِيثِ: ضعف کی طرف نسبت کرنا۔ وَتَضَعُّعُهُ اسْتَضْعَفَهُ: ضعیف سمجھنا۔ اَضْعَفَهُ: دوچندر کرنا۔ کمزور کرنا۔ صفت مفعولی مَضْعُوفٌ: قیاس کے مطابق مُضْعَفٌ ہونا چاہئے تھا اور یہ ایسا ہی ہے جیسے "أَسْعَدَهُ اللَّهُ" سے مُسْعَدٌ نہ کہ مُسْعِدٌ۔ اَضْعَفُ الرَّجُلُ: کمزور جانور کالاکا ہونا۔ ضَاعَفَهُ: دوچندر کرنا۔ تَضَاعَفَ: دوچندر ہونا۔ الضَّعْفُ وَالضَّعْفُ: کمزوری۔ ضِعْفٌ الشَّيْءِ: دوچندر اور یادوچندر سے زیادہ جو غیر محصور ہے پس ان کے قول "لَكَ ضِعْفَةٌ" کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے دوچندر یا سہ چند یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ جِ اَضْعَافٌ اَضْعَافٌ الْكِتَابُ: کتاب کی سطور کا فاصلہ۔ اَلْاَضْعَافُ مِنَ الْجَسَدِ: اعضاء جسم یا ہڈیاں۔ الضَّعْفُ: کمزوری۔ عقل و رائے کی کمزوری۔ الضَّعْفَانُ: کمزور۔ جِ ضَعْفَالِيٌّ۔ الضَّعُوفُ: کمزور۔ الضَّعِيفُ: کمزور۔ جِ ضَعْفًا وَضَعْفًا وَضَعْفًا وَضَعْفًا: ضعیفی مؤنث ضَعِيفَةٌ الضَّعِيفُ مِنَ الْكَلَامِ وَرَجْرَجَ فَصَاحَتْ سَعْرًا اَبْوَاكِلَامِ۔ الْمُضَاعَفَةُ مِنَ الدُّرُوعِ: ایسی زرہ جس کے</p>	<p>الضَّرَامَةُ: گزری جو مشتعل ہو۔ علم کارِ رخت۔ الضَّرِيمُ: جلا ہوا۔ الضَّرِيمَةُ: ایک درخت کا گوند۔ ضَرًا يَضْرُو وَضَرًا: العَرَقُ: رگ کا خون بہانا جو بند نہ ہو۔ الرَّجُلُ: چھینا۔ ضَرِي يَضْرِي ضَرَاوَةً وَضَرِي وَضَرِيًا وَضَرَاءَةً بِالشَّيْءِ: حریص ہونا۔ ضَرِي وَضَرَاءٌ وَضَرَاءٌ: الكَلْبُ بِالضَّنْدِ: کتے کا شکار پر خورگ ہونا مع گوشت خون کے چٹ کر جانا۔ صفت ضَرِي وَضَرِيًا وَضَرِيًا: مَوْنُثٌ ضَرَاوَةٌ: جِ ضَرَاوِيٌّ: ضَرِي التَّيْبُ: جھاگ والا ہونا۔ ضَرِيٌّ وَاضْرِيٌّ: الكَلْبُ بِالضَّنْدِ: شکار پر کتے کو بھڑکانا۔ اَضْرِي الرَّجُلُ: جھاگ والی نیزہ پینا۔ اسْتَضْرِي: لِلضَّنْدِ: شکار کو بے خبری میں پھڑکانا۔ الضَّرَاءُ: مہ۔ گنجان درخت۔ وسیع میدان۔ پوشیدگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَمْشِي الضَّرَاءَ" یعنی وہ درختوں میں پھپھپ چھپ چھپ کر چل رہا ہے۔ الضَّرِي: مہ۔ لڑائی کی شدت۔ الضَّرْوُ: شکار کا عاری کرنا۔ مَوْنُثٌ ضَرْوَةٌ: جِ ضَرَاءٌ وَاضْرَاءٌ: ایک قسم کا درخت۔ الضَّرِي: ایک قسم کی نیزہ۔ الضَّرَاوِي: جِ ضَرَاوِيٌّ: مِنَ الْحَيَوَانَاتِ: درندے جیسے شیر پھینا وغیرہ۔ ضَرِي يَضْرِي ضَرِيًا: العَرَقُ بِالذَّمِّ: رگ کا خون بہانا۔ صفت ضَرِيٌّ۔ ضَرًا (س) ضَرًّا: بدخلق ہونا۔ اَضْرَ عَلَيْهِ: بجل کرنا۔ اَضْرَةً: پینا۔ اَلْاَضْرُ: بدخلق۔ تنگ جڑے والا۔ وہ شخص جس کے اوپر نیچے کی ڈاڑھیں مل گئی ہوں جس کی وجہ سے صاف منگولہ کر کے۔ جِ ضَرٌّ۔ الْمُضْرُ: بدخلق۔ غضبناک۔ ضَرَّةٌ (ن) ضَرًا: ضَرْنَا: جو چاہتا ہے وہ نہیں بلکہ جو کچھ ہاتھ میں ہو اس پر قبضہ کر لینا۔ تَضَارَى: الْقَوْمُ: آپس میں ایک دوسرے سے لینا دینا اور غلبہ کرنا۔ الضَّرِي: قاتل اعتبار سمجھنا۔ آل و اولاد۔</p>	<p>بھڑکانا۔ ضَرُوعٌ وَتَضْرُوعٌ: شیر صیاد کام کرنا۔ شیر کے مشابہ ہونا۔ الضَّرُوعُ: شیر۔ جِ ضَرًا غِمٌ۔ الضَّرُوعُ وَالضَّرُوعَانَةُ: شیر۔ ہماور۔ قوی۔ الضَّرْفُ: عِنْدَ الْعَامَّةِ: سگی تیل وغیرہ کے لیے پڑے کا برتن اور صواب طرف ہے اور اس کے مرادف زق ہے۔ الضَّرْفَةُ: کثرت۔ ضَرْفَةٌ: بِالْحَبْلِ: رشتی سے ہاندھنا۔ مضبوط کرنا۔ ضَرُوكَ (ك) ضَرًا كَةً: ہو قوف ہونا۔ الضَّرِيكُ: احق۔ اندھا۔ لجا۔ بد حال فقیر۔ مَذْرُوكٌ: جِ ضَرًا يَكُ وَضَرًا كَاءٌ۔ الضَّرَاكُ: موٹا آدمی۔ مضبوط و توانا آدمی۔ شیر۔ ضَرَمٌ (س) ضَرَمًا: بھوک یا غصہ سے بھڑکانا۔ ضَرَمَتِ النَّازُ: آگ کا مشتعل ہونا۔ عَلَيْهِ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔ الطَّغَامُ: کمانے کو بالکل صاف کر دینا اور کچھ نہ چھوڑنا۔ اَضْرَمٌ وَضَرَمٌ وَاسْتَضْرَمَ النَّازُ: آگ روشن کرنا۔ مشتعل کرنا۔ بھڑکانا۔ اِضْطَرَمَّتْ وَتَضْرَمَّتِ النَّازُ: مشتعل ہونا۔ تَضْرَمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔ اِضْطَرَمَّ الْمَشِيْبُ: بڑھاپا آجانا۔ الضَّرْمُ وَالضَّرْمُ: ایک خوشبو دار درخت جس کا پھل بلوط کے مانند اور پھول ستر کے مانند ہوتا ہے۔ الضَّرْمُ: عقاب کا پتہ۔ الضَّرْمُ: بھوک کی وجہ سے غصہ۔ اندھن۔ اسی سے مثال ہے "فَمَفَحَتْ فِيهِ غَيْرُ ضَرْمٍ" جبکہ فائدہ کام کرے۔ الضَّرْمُ: بھوکا۔ عقاب کا پتہ۔ تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ الضَّرْمَةُ: چنگاری۔ آگ۔ جِ ضَرْمٌ: کہا جاتا ہے "مَا لِي مِنَ الدَّارِ نَالِيحُ ضَرْمَةٌ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔ الضَّرَامُ: بھڑک۔ جلن۔ کھورا۔ چھینی۔ کشادہ زمین۔</p>
---	--	---

طے ڈہرے ڈہرے ہوں۔
أَرْضٌ مُضَعَّفَةٌ: زمین جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔

ضَعِلَ (س) ضَعْلًا: ماں باپ کے قریب النیب ہونے سے بچے کا بلبا ہونا۔

ضَعَائِضُهُ ضَعْفًا: پوشیدہ ہونا۔

أَضَعَّ الْقَوْمُ: سرسبز باغ میں ہونا۔ فراخ دستی کی زندگی بسر کرنا۔ أَضَعَّتْ وَاحِظَةٌ الْأَرْضُ: سبز زار ہونا۔

الضَّيْفُ: تروتازگی۔

الضَّيْفَةُ: سرسبز باغ۔ فراخ دستی کی زندگی پتلا خمیر۔ لوگوں کی مغلطہ جماعت۔

ضَعِبَ (ف) ضَعْبًا: بھیڑیے یا خرگوش کی طرح آواز کرنا۔ گھبرا دینا۔

الضَّيْبُ وَالضَّيْبَانُ: خرگوش اور بھیڑیے کی آواز۔

الضَّيْبَانُ: لومڑی کا بچہ۔ کمزور مرد۔ کبڑی کھیرا۔ ہلیوں کی مانند ایک سبزی۔ ج ضَعْفَانِيسُ ۶

ضَعَفَ (ف) ضَعْفًا: الحدیث، ملانا۔ کپڑے کو دھونا اور صاف نہ کرنا۔ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔

أَضَعَّتْ: الحَالِمَةُ التُّرْبَانَا: خواب کو ٹھک سے بیان کرنا۔

ضَعَّتْ: النَّبَاتُ: سبزی کا مٹنا۔

إِضْطَفَّتْ: الْحَطَبُ: کبڑی کو اٹھا کرنا۔

الضَّعْفُ: تروتازگی گھاس کا مٹنا۔

مِنَ الْخَبِيرِ وَالْأَمْرِ: مخلوط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ ج أَضْعَافٌ. أَضْعَافٌ أَخْلَامٌ: گزبو خواب جن کی کوئی تعبیر دی جا سکتے۔

كَلَامٌ ضَعْفٌ وَضَعْفٌ: ایسی گفتگو جس میں کوئی ثبوت نہ ہو۔

التَّضْعِيفُ: بارش سے تر زمین یا نباتات۔

ضَعْفَةٌ (ف) ضَعْفًا وَأَضْعَفَةٌ: بھیجنا۔ بھیج کرنا۔ ٹھکی کرنا۔

ضَاعِظَةٌ ضِعَاطًا وَمُضَاعِظَةٌ: ایک دوسرے کو بھیجنا۔ ٹھکی کرنا۔

تَضَاعَظُوا: ٹھکی کرنا۔

إِنْضَغَطَ: مغلوب ہونا۔

إِنْضَغَطَ عَلَيْهِ: تاوان وغیرہ میں سختی کرنا۔ اور قیاس کے مطابق اضغطط ہے۔

الضَّغْفَةُ: ٹھکی۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ فُلَانًا ضَّغْفَةً" جبکہ تم ٹھکی کر دو تاکہ کسی شے پر مجبور کرو۔ شدت۔ مشقت۔

الضَّغْفَةُ: قمر۔ ٹھکی۔ مجبوری۔ ضَغْفَةُ الْقَبْرِ: فشار قبر۔

الضَّاعِظُ: فَا۔ تمہبان۔ امانت دار۔

الضَّاعِظُ: کابوس (ایک قسم کی بیماری)

الضَّهِيطُ: کمزور رائے والا۔ ج ضَغْفِي مَوْثٌ ضَغْفِيَةٌ.

الْمَضْغَطُ: پست زمین۔ ج مَضْغِطٌ.

ضَعِلَ ضَعِيلًا: بچھٹانے والے آواز نکالنا۔

الضَّعِيلُ: بچھٹانے والے کے منہ کی آواز۔

ضَعَمَ (ف) ضَعْمًا: الشَّيْءُ: وہ، ہنسنا۔ کہا جاتا ہے "ضَعَمَةُ ضَعْمَةُ الْأَسَدِ" اس نے اسے شیر کی طرح ہنسنا لیا۔

الضَّعَامَةُ: واتوں سے کٹ کر پھینکی ہوئی چیز۔ الضَّيْفَمُ: شیر۔ کائے والا۔ ج ضَيَاغِمُ.

الضَّيْفِيُّ: شیر۔

ضَعِنَ (س) ضَعْنًا: عَلَيْهِ: کینہ رکھنا۔ إِلَيْهِ: بائیں ہاتھ۔

إِنْضَغَفَنُ: بٹل کے نیچے لینا۔

إِنْضَغَفَنَ وَتَضَاعَفَنَ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے کینہ رکھنا۔ کہا جاتا ہے "إِنْضَغَفَنَ فُلَانٌ عَلَيَّ فُلَانٌ ضَعِينَتَهُ" یعنی کینہ کو پوشیدہ رکھا۔

الضَّيْفَنُ: کینہ۔ شوق۔ میلان۔ کچی۔ بٹل۔ جانب۔ ہاڑ کا پہلو۔ ج أَضْعَانُ.

الضَّاعِنُ وَالضَّيْفَنُ: کینہ دار۔ فَوْشٌ ضَاعِنٌ وَضَعِنٌ: آڑیل گھوڑا جو بغیر بارے ہوئے نہ چلے۔

عَوْدٌ ضَعِنٌ: شیرھی کبڑی۔

الضَّعْفَةُ: کینہ۔ ج ضَعْفَانُ.

ضَعَا يَضْعُو ضَعْفًا: الْمُقَامَرُ: خیانت کرنا۔ إِلَيْهِ: عاجزی کرنا۔ ضَعْفًا وَأَضْعَافًا.

السُّتُوْرُ: بلی کا سیاہیوں میاؤں کرنا۔

أَضْعَاهُ إِضْعَاءً: میاؤں میاؤں کرنے پر برا لکھنا۔

تَضَاعَى: بھوک یا مار سے لہلہانا۔

الضَّغَاءُ: مہ۔ ذلیل آدمی کی آواز۔

ضَفَّ (ن) ضَفًّا وَضَفْفًا: الْقَوْمُ عَلَى الْمَاءِ: او الطَّعَامِ: بھیڑ کرنا۔ ضَفًّا: الشَّيْءُ: جمع کرنا۔

تَضَافَ: الْقَوْمُ: بھیڑ کرنا۔ کہاں والا ہوتا۔

ضَفَّ الْحَالُ: بد حال۔

الضَّفَّةُ: جماعت۔

الضَّفَّةُ وَالضَّفَّةُ: دریا کا کنارہ۔

مِنَ الْبَحْرِ: سمندر کا ساحل۔ ج ضَفَافٌ.

الضَّفَفُ: مال کی قلت اور اہل و عیال کی

کثرت۔ حاجت۔ کمزوری۔ جلد بازی۔

الضَّفَالَةُ: بے عقل۔

عَيْنٌ ضَفُوفٌ: بہت پانی والا چشمہ۔

مَاءٌ مَضْفُوفٌ: جس پانی پر بھیڑ زیادہ ہو۔

ضَفْدَةٌ (ض) ضَفْدًا: طمانچہ رانا۔

ضَفْدَعُ الْمَاءِ: پانی کا مینڈکوں والا ہونا۔ الزُّجْبُلُ: سکرنا۔ گوز کرنا۔

الضَّفُوعُ: مینڈک۔ ج ضَفْدَاعٌ وَضَفْدَاعِيٌّ: اور یہ کم مستعمل ہے۔ واحد ضَفْدَعَةٌ.

ضَفْرٌ (ض) ضَفْرًا وَضَفْرًا: الْحَتْلُ: ریش بٹنا۔ الشَّعْرُ: بال گوندھنا۔ ضَفْرُ الْبِنَاءِ:

عمارت کو پتھروں سے بھینچنے کے کارے کے بنانا۔

الزُّجْبُلُ: روڑے میں کودنا۔ الدَّابَّةُ: جانور کے منہ میں لگام دینا۔

ضَافَرَةٌ: عَلَى الْأَمْرِ: مدد کرنا۔

تَضَافَرُوا: عَلَى الْأَمْرِ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

إِنْضَفَّرَ: كُنْدَاهَا: ہونا۔ بٹا ہوا ہونا۔ کہا جاتا ہے "إِنْضَفَّرَ الْحَبْلَانِ" یعنی دونوں رسیاں گندھ گئیں۔

الضَّفَرُ: مہ۔ کچا دھبہ۔ گندھے ہوئے بالوں کی ایک ٹہنی۔ ریت کا بڑا تودہ جو ایک جگہ جمع ہو گیا ہو۔ ج ضَفْرٌ وَأَضْفَارٌ.

الضَّفَارُ: کچا دھبہ۔ ج ضَفْرٌ.

الضَّفُورَةُ: ریت کا بڑا تودہ جو ایک جگہ جمع ہو گیا ہو۔ كُنَانَةُ ضَفُورَةٌ: بھرا ہوا ترش۔

ضفط

ضل

ضل

الضَّفِيضَةُ - گندھے ہوئے بالوں کی رشتی۔
سندر کا کنارہ۔ کچاوہ کا تنگ۔

الضَّفِيضَةُ - گندھے ہوئے بالوں کی ایک پٹی۔
چوٹی۔ جِ ضَفَّانُو۔ کہا جاتا ہے ”كَتَنَانَةُ ضَفَّيضَةُ“
یعنی ہمراہ اتر کر۔

ضَفَّزَ (ن) ضَفَّزَا۔ کودنا۔ فَلَانَا: وضع
کرنا۔ ہاتھ یا پیر سے مارنا۔ الْقَوَسُ:
گھوڑے کے منہ میں لگام رینا۔ التَّبِيضُ:
اُونٹ کے منہ میں زبردستی لقمہ رینا۔
إِضْفَافَةُ: زبردستی لگانا۔
الضَّفَّانُ: چنل خور۔

الضَّفِيضَةُ: بزاقہ۔ جِ ضَفَّانِيضُ:
ضَفَّضَفَةُ: الْقَوْمُ: جماعت۔ قوم۔
ضَفَّظَةُ (ن) ضَفَّظَا: بِالْحَبْلِ: رشتی سے
باندھنا۔ الرَّجُلُ: حاجت پوری کرنا
بِسَلْبِهِ: پائیمانہ کرنا۔

ضَفَّظَ (ك) ضَفَّظَا: دُحِيلَةً اور بڑے پیٹ کا
ہونا۔ جال اور کمزور رائے کا ہونا۔
تَضَفَّظَ: اللِّحْمُ: گوشت کا گٹھا ہوا ہونا۔

الضَّفَّظَةُ: جمالت۔ کمزوری رائے۔
الضَّفَّاطُ: فَا: مسافر جس کا سفر دور کا نہ ہو۔
الضَّفَّاطَةُ: مؤنث ضَفَّاطٌ: بار برداری کا
اُونٹ۔ کینہ آدمی۔ شتریان۔

الضَّفَّاطُ وَالضَّفَّيظُ وَالضَّفَّيظُ: موٹا وھیلا۔
بڑے پیٹ والا۔ یوقف۔ کال جو قوم کا ساتھ
جنگ و تیرہ میں نہ دے۔ شتریان۔
الضَّفَّاطُ: کینہ آدمی۔

الضَّفَّاطُ: موٹا وھیلا۔ بڑے پیٹ والا۔
ضَفَّنَ (ض) ضَفَّنَا: إِلَيْهِ: کسی کے پاس جا کر
بیٹھنا۔ بِحَاجَتِهِ: حاجت پوری کر دینا۔
بِرَجْلِهِ: لات مارنا۔ مَعِ الضَّعِيفِ:
ساتھ آنا۔ بِهِ الْأَرْضُ: زمین پر ٹپک دینا
فَلَانًا: چوڑے تر پلاٹ مارنا۔ عَلَيْهِ:
کلم کرنا۔

تَضَفَّنَ: الْقَوْمُ عَلَيْهِ: مل کر مدد کرنا۔
الضَّيْفُ وَالضَّفْنُ: یوقف۔ چھوٹے قد کا
موٹا۔

ضَفًّا يَضْفُو ضَفَّوًا: الزَّائِسُ: سر پر بال بہت

زیادہ ہونا۔ الْحَوْضُ: حوض کا کناروں
سے بہنا۔ النَّوْبُ: کپڑے کا پورا ہونا۔
صفت ضَفَّافٍ۔

الضَّفَّافُ: جانب۔ مثنى ضَفَّافُونَ۔
ضَفَّوَةٌ: العَيْشُ: خوش عیشی۔
ضَفَّنَ (ض) ضَفَّنَا: آواز کرنا۔

ضَفَّنَا (ن) ضَفَّنَا: بِمَجْنُونًا
تنگ ہونا۔ هُوَ بِالْحَجِيحَةِ: مغلوب کرنا۔
ضَفَّنَا (ن) ضَفَّنَا: زور سے چبھونا۔

الضَّفَّنِيُّ: تموز پانی۔
الضَّفْنِيُّ: بڑے ذیل ڈول کا۔ تَنَّا: فقیر ج
ضَيَّاكِلٌ وَضَيَّاكِلَةٌ:
الأضْكُلُ: تنگا۔

ضَلَّ (س ض) ضَلَّالًا وَضَلَّالَةً: گمراہ ہونا۔
دین حق یا راہ حق سے ہٹ جانا۔ صفت ضَلَّالٌ: جِ
ضَلَّالٌ وَضَلَّالُونَ: الظُّلْمِيُّ او عَقْفُ:
ہدایت نہ پانا۔ الشَّيْ عَقْفُ: ضائع ہونا۔ بیکار

جانا۔ ضَلَّ سَعْيُهُ: کامیاب نہ ہونا۔ الشَّيْ:
تلف ہونا۔ الرَّجُلُ: مرنا اور گل سڑ کر مٹی
اور بڑھی ہو جانا۔ الرَّجُلُ: بھول جانا۔
ضَلَّلَهُ تَضَلُّلًا وَتَضَلُّلًا: گمراہ کر دینا۔ گمراہی

کی طرف نسبت کرنا۔
أَضَلَّ: الشَّيْ: ضائع کرنا۔ ہلاک کرنا۔ و فَنَ: کرنا۔
عائب کرنا۔ هُوَ اللَّهُ: اللہ کا کسی کو گمراہ کر دینا
فَلَانٌ قَوْمَهُ: گھوڑے کا ہماگ جانا اور یہ

معلوم نہ ہو کہ کہاں گیا۔ الشَّيْ او
الرَّجُلُ: گمراہ پانا اور اسی سے ہے ”أَتَى قَوْمَهُ
فَأَضَلَّهُمْ“ یعنی اپنی قوم کے پاس آیا تو ان کو گمراہ
پایا۔

تَضَلَّ: گمراہی کا دعویٰ کرنا۔
إِسْتَضَلَّ: گمراہ ہونے کو کہنا۔
الضَّلُّ وَالضَّلَّةُ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالَةُ:

گمراہی۔ باطل۔ ہلاکت۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ ضَلَّ بَنِي
ضُلَّ او ضَلَّ بَنِي ضِلَّ او ضَلَّ أَضْلَالًا او ضَلَّ
أَضْلَالًا“ یعنی وہ گمراہی میں متنسک ہے یا اس کے
باپ کا پتہ نہیں یا اس کے اندر تیر نہیں۔

الضَّلَلُ: گمراہی۔ پانی جو پتھروں کے نیچے سے یا
درختوں کے نیچے جس کو کبھی دھوپ نہ لگے۔

الضَّلَّةُ: اسم مرفوع۔ حیرت۔ خیر یا شر کے طلب
کرنے میں عائب ہونا۔

الضَّلَّةُ: گمراہی۔ کہا جاتا ہے ”ذَهَبَ ذَمُّهُ
ضَلَّةً“ یعنی اس کا خون باقصاص کے ضائع ہو گیا۔
”ذَهَبَ ضَلَّةً“ یعنی معلوم نہیں کہاں گیا۔ ”هُوَ
بِتَبَعِ ضَلَّةً“ یعنی وہ مصیبت ہے ”هُوَ يَلُومُنِي
ضَلَّةً“ یعنی ملامت کرنے میں اسے ہدایت کی
توفیق نہیں ہوئی۔

الضَّلَّةُ: کال رہنمائی۔ کہا جاتا ہے ”ذَلِيلٌ بِهِ
ضَلَّةً“ یعنی ایسا رہنما ہے جس کے اندر کال
رہنمائی ہے۔

الضَّلَاةُ: مؤنث ضَلَّالٌ: گم شدہ چیز جس کے
پیچھے تم پھر رہے ہو۔ جِ ضَلَّوَالٌ:
الضَّلِيلُ: بہت زیادہ گمراہ۔

الأضْلُوَالَةُ: گمراہی۔ جِ أَضْلَالِ:
الضَّضَلُ: جس میں لوگ گمراہ ہو جائیں۔
المُضَلُّ: فا۔ سراپ۔

الضَّضَلَةُ وَالضَّضَلَةُ: گمراہی۔ أَضْضُ: مُضَلَّلُو
مَضَلَّةٌ: زمین جس میں راست بھول جائیں اور
جمع کیلئے کہا جاتا ہے ”أَضْضُونَ مَضَلَّاتٌ“

المضللُ: بہت زیادہ گمراہ۔ گمراہی کے پیچھے
بہت زیادہ پڑنے والا جس کو خیر کی توفیق نہ دی گئی
ہو۔

ضَلَّعَ (ك) ضَلَّعَا: قوی مضبوطا پلیوں والا
ہونا۔ صفت ضَلَّاعٍ:
ضَلَّعَ (ف) ضَلَّعَا: الشَّيْ: ٹیڑھا ہو جانا۔

صفت ضَلَّاعٍ: الرَّجُلُ: چلی پر مارنا
عَلَيْهِ: کلم کرنا۔

ضَلَّعَ (س) ضَلَّعَا وَضَلَّعَا: پیدائشی ٹیڑھا
ہونا۔ صفت ضَلَّاعٍ اور اسی سے ہے ”لَا يَمِينُ
ضَلَّعَكَ او ضَلَّعَكَ“ یعنی میں تیری کبھی کو
درست کر دوں گا۔ ضَلَّعَ مَعَ فَلَانٍ: جھکا
الرَّجُلُ: حکم سیرا سیراب ہونا۔

ضَلَّعَهُ: جھکانا۔ ٹیڑھا کرنا۔ بوجھل کرنا۔ ضَلَّعَ
النَّوْبُ: کپڑے پر پلیوں کے مانند نقش و نگار
بنانا۔

أَضْلَعَهُ: جھکانا۔ بوجھل کرنا۔ کہا جاتا ہے
”فَلَانٌ أَضْلَعَتُهُ الْخَطُوبُ“ یعنی فلاں کو

حوادث نے جو حمل کر دیا۔

تَضَلَّعَ: حکم سیرا سیراب ہونا اور اسی سے ہے "تَضَلَّعَ مِنَ الْعُلُومِ" یعنی اس نے علوم سے حصہ کال پایا۔

إِضْطَلَعَ: قوی ہونا _____ بحفلیہ: بوجھ لے کر کھڑا ہونا اور اس کی طاقت رکھنا۔

الضَّلَعُ: میلان و ٹیڑھا پن۔ کہا جاتا ہے "ضَلَّكَ مَعَ فَلَانٍ" تمہارا میلان فلاں کی جانب ہے۔

الضَّلَعُ وَالضَّلَعُ: بلی (مؤنث) أَضْلَعُ وَضَلَّعُ وَاضْلَاعٌ: کہا جاتا ہے "هُنَّ عَلَيَّ ضِلْعٌ جَانِبَةٌ" یعنی وہ سب میرے اوپر ظلم کرنے میں مشغول ہیں۔ الضَّلَعُ وَالضَّلَعُ مِنَ الْبَيْطَانِ: خربوزے کی قاش پھانک۔ ضِلْعُ السِّلْقِيِّ وَنَحْوَهُ: چندر کے پتوں کی موٹی رگ۔ الضَّلَعُ: چھوٹا پہاڑ۔ ہند۔ جال آبرو۔

الضِّلَعَةُ: جانب۔ الضِّلَعَةُ: ایک سبز رنگ کی چھوٹی پھولی۔ الأضلاعُ: مضبوط موٹا مروج ضلع۔ الضَّلُوعُ: زمین کا ڈھلوان۔

الضَّلِيلُ: مضبوط پہلیوں والا۔ قوی۔ ج ضلع۔ مؤنث ضِّلِيلَةٌ زَجَلٌ ضِّلِيلُ الْعَقِيمِ: بڑے منہ والا۔ قَوْسٌ ضِّلِيلَةٌ وَضِّلِيلَةٌ وَمَضْلُوعَةٌ: کمان جس کی لکڑی میں جھکاؤ ہو۔

المُضْلَعُ مِنَ الْأَحْمَالِ: بوجھل۔ عاجز کر دینے والا۔ کہا جاتا ہے "مُضْلَعٌ بِهَذَا الْأَمْرِ" اسے اس کام کی طاقت ہے۔

المُضْلَعُ: پہلوؤں والا _____ مِنَ الشَّيْبِ: ہماری دار کپڑا۔

حَمَّ (ن) ضَمًّا الشَّيْءُ: جمع کرنا _____ الشَّيْءَ إِلَيْهِ: بقدر کرنا اور اپنی طرف کھینچنا _____ عَلَى الشَّيْءِ: بقدر کرنا _____ فَلَانًا إِلَيْهِ: ساتھ رکھنا۔ ضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ: معاند کرنا _____ الحَرْفُ: حرف کو ضم کی حرکت دینا۔ کہا جاتا ہے "ضَمَّ جَنَاحَهُ عَنِ النَّيَّاسِ" یعنی اس نے لوگوں سے نرمی برتی۔

ضَمَّهُ إِلَيْهِ: ملانا۔

أَضَمَّهُ الشَّيْءَ إِلَى فَلَانٍ: فلاں کی طرف چیز

بھیجا۔

إِنضَمَّ: ملنا _____ عَلَى كَذَا: مشتمل ہونا۔ تَضَمَّ الشَّيْءُ: پوری طرح سے شامل ہونا۔ إِضْطَمَّ: اپنی طرف ملانا۔ إِضْطَمَّ عَلَيْهِ: مشتمل ہونا۔

الضَّمُّ وَالضَّمَّةُ: پیش کی حرکت۔ الضَّمَّةُ: گھوڑوں کے گھوڑوں کی جماعت۔ الضَّمَامُ: ملانے کا زریعہ۔

الضَّمْرُومُ: دولے ٹیلوں کے درمیان کی وادی۔ الضَّمِيمُ: ساقی۔ مؤنث ضَمِيمَةٌ۔

الإضْمَاعَةُ: جماعت۔ ج أضاميم _____ مِنَ الكُتُبِ: کتابوں کا بنڈل۔

الْمُنضَمَةُ: عَلَى كَذَا: مشتمل ملا ہوا۔ کہا جاتا ہے "أَضْمَحَ مُنْضَمًا" یعنی لاغر ہو گیا گو یا کہ بعض بعض کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

ضَمَّحَ (ن) ضَمَّحًا وَضَمَّحٌ: جَسَدُهُ: خوشبو لگانا۔

ضَمَّحٌ وَأَضْمَحٌ: بِالْأَرْضِ: زمین سے چٹ جانا۔

الضَّمَّجَةُ: ایک بدبودار کبوتر کا کتا ہے۔ كَهْمَلٌ: الضَّمَّجُ: آفت جو انسان کو لاحق ہو۔

إَضْمَحَلٌ: نیت و ناپور ہونا _____ السَّحَابُ: بادل کا کھل جانا۔

ضَمَّحَ (ن) ضَمَّحًا وَضَمَّحٌ: جَسَدُهُ بِالطَّلَبِ: بدن میں خوشبو لگانا۔

تَضَمَّحَ وَالضَّمَّحُ: بِالطَّلَبِ: خوشبو سے لت پت ہونا۔

الضَّمَّخَةُ: موٹی عورت یا اونٹنی۔ ضَمَّخَ (ن) ضَمَّخًا وَضَمَّخٌ: الجُزْحُ:

زخم پر پٹی باندھنا۔ کہا جاتا ہے "أَضْمَدَ عَلَيْنَكَ لِيَأْتِيكَ" یعنی اپنے کپڑے کو اپنے اوپر باندھو "ضَمَّخَهُ بِالْعَصَا" اس نے اس کے سر پر لاکھی ماری اور ایسا "ضَمَّخَ اسَهُ بِالسِّيفِ"

ضَمَّخَ (س) ضَمَّخًا: خشک ہونا۔ سخت غصینا کہ ہونا _____ عَلَيْهِ: کہنے کرنا۔

أَضْمَدَ الْقَوْمَ: جمع کرنا۔ تَضَمَّخَ الْجُزْحُ: پٹی باندھ جانا۔

الضَّمْدُ: مہ۔ تَرَحُّكٌ: عمدہ کبیراں۔ خراب

کبیراں۔ کیندوری۔ الضمد۔ دوست۔ ساقی۔

الضمد۔ ظلم پر اتارنا۔ الضماید۔ قائل۔ لازم۔

الضماد والضمادة۔ پٹی جس سے عضو مجروح کو باندھا جائے _____ کہا جاتا ہے "أَنَا عَلَى ضِمَادَةٍ مِنَ الْأَمْرِ" یعنی میں کام کے نزدیک پہنچ گیا ہوں۔

ضَمْرٌ (ن) وَضَمْرٌ (ك) ضَمْرٌ: ڈبلا ہونا۔ لاغر ہونا۔ چھریا ہونا۔ صفت ضامير مؤنث ضامير و ضامير مؤنث و ضامير مؤنث۔

أَضْمَرَ الْأَمْرُ: پوشیدہ کرنا _____ لِحْنِ نَفْسِهِ شَيْثًا: اپنے دل میں کسی چیز کا عزم کرنا _____

الخبر: مہ تک پہنچنا۔ أَضْمَرَتِ الْأَرْضُ فَلَانًا: زمین نے اس کو موت یا سفر کی وجہ سے غائب کر دیا۔ الشاعِرُ: شاعر کا اظہار برتا اور

إضمار اصطلاح فن عروض میں یہ ہے کہ دوسرے حرف کو ساکن کر دیں۔ جیسے مُتَقَفِّعًا عَلِنَ

کے دوسرے حرف کو ساکن کر دیں تو مُتَقَفِّعًا عَلِنَ ہو کر مُتَقَفِّعًا عَلِنَ کے وزن پر ہو جاتا ہے۔

أَضْمَرَ وَضَمَّرَ: الْقَوْمَ: ڈبلا کرنا۔ چھریا بنا۔

تَضَمَّرَ وَجْهَهُ: لاغری کی وجہ سے کھل سکا جانا۔

إِنضَمَرَ الْفُضْضُ: شئی کا خشک ہونا۔ إِضْطَمَرَ: مل جانا _____ الْقَوْمَ: گھوڑے کا ڈبلا ہونا۔ چھریا ہونا۔

الضمر۔ چھریا۔ ڈبلا۔ پتلے پیٹ والا۔ نازک بدن۔ مؤنث ضَمْرَةٌ: تگ۔ راز (_____

المضمض) پوشیدہ۔ الضمضرو والضمر۔ ڈبلا پن۔

الضمضير۔ راز۔ پوشیدہ خیال۔ پڑمروہ انجور۔ ضمير نحویوں کے نزدیک وہ لکھ ہے جو حکم

طالب اور غائب پر دلالت کرے جیسے أَنَا۔ أَنْتَ۔ هُوَ ج ضَمَائِرُ۔

الضمضار۔ پوشیدہ۔ ملا ہوا وعدہ۔ ہر وہ چیز جس پر اعتماد نہ ہو۔ مال جس کی واپسی کی امید نہ ہو

_____ مِنَ الدُّنْيَا: جس کی مدت معین نہ ہو۔

الإضمار۔ مہ۔ زحافات شعر کی ایک قسم

تشریح اصغر فعل کے تحت میں دیکھو۔
 الضَّوْمَرَانُ وَالضَّيْمَرَانُ: ایک قسم کی خوشبو دار گھاس۔
 المِضْمَارُ: گھوڑوں کے میدان کی انتہا۔ وہ میدان جہاں گھوڑے چمیرے کئے جائیں۔
 كَهْوُورُودُ کے چمیرے کرنے کی مدت۔ میدان گھوڑوں کا۔
 ضَمَمَزَ (ن) ضَمَمَزَا: چپ رہنا۔
 اللُّقْمَةُ: بڑا لقمہ بنا اور نگل جانا۔
 عَلِيٌّ مَالِيَهُ: بخل کرنا۔ صفت ضَامِرٌ وَضَمُورٌ: ج۔ ضَمُورٌ۔
 ضَمَمَسَا (ش) ضَمَمَسَا: آہستہ آہستہ چاہنا۔
 ضَمَمَضَمَ ضَمَمَضَمَةً: دل کو قوی کرنا۔ ہمارا بنا۔
 الأَسَدُ: شیر کا گونجا۔
 فَلَانٌ عَلِيٌّ الصَّالِي: کل لینا۔
 الضَّمَمَضَمُ وَالضَّمَامِضِمُ: دلیر۔ گرائڈیل۔ شیر طہناک۔
 ضَمَمِنَ (س) ضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا الشَّيْءَ وَبِهِ: کفیل ہونا۔ ضامن ہونا۔
 ضَمَمِنَ (س) ضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا الشَّيْءَ: ایسے مرض میں مبتلا ہونا جو ہمیشہ رہے اور وقتاً فوقتاً سخت ہوتا رہے۔ صفت ضَمَمِنُ۔
 ضَمَمِنَ الشَّيْءَ الوِعَاءَ: برتن میں رکھنا۔
 هَ الشَّيْءَ: زمرہ دار بنا دینا۔
 الشَّاعِرُ: شاعر کا تعین کرنا۔ یعنی دوسرے کے شعر کو اپنے کلام میں شامل کرنا۔
 تَضَمَّنَ الشَّيْءَ: مشتمل ہونا۔
 عَقِيٌّ: اس نے میری طرف سے اپنے زمرہ لے لیا۔
 الضَّمَمِنُ وَالضَّمَمِنَةُ وَالضَّمَمَانُ وَالضَّمَامَةُ: ہمیشہ کارہے والا مرض۔ لچاپین۔
 الضَّمَمِنُ: اندرون شئی۔ ضَمَمِنَ الكِتَابِ: کتاب کا لچ۔
 الضَّمَمِنُ: عاشق۔ پرانے مرض والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ضَمَمِنٌ عَلَيَّ أَهْلِيهِ" یعنی وہ اپنے لوگوں پر بوج ہے۔
 الضَّمَامِينُ: فا۔ ضامن۔ کفیل۔ زمرہ دار۔
 الضَّمَمِينُ: کفیل۔ مرض لازم میں مبتلا۔ ج۔

ضَمَمِنَ۔
 الضَّمَمَانُ: مہ۔ کفالت۔ تاوان۔ ڈنڈ۔
 الضَّمَمُونُ: مہ۔ جس کی کفالت کی جائے۔
 مِنَ الضَّمَمِيَّةِ: مفہوم جو جملہ سے سمجھ میں آئے اور جملہ اس کے لیے بیان نہ کیا گیا ہو۔ ج۔ ضَمَامِيْنُ۔
 الضَّمَمِيْنُ: مہ۔ تعین کیا ہوا۔
 مِنَ الضَّمَمِيْنِ: غیر مکمل آواز جب تک دوسرے سے ملتا نہ جائے سمجھ میں نہ آئے۔
 ضَمَمِنَ (س) ضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا: بخل کرنا۔ ضَمَمِنَ بِالْمَكَانِ: مکان سے جدا نہ ہونا۔
 الضَّمَمِنُ وَالضَّمَمِنَةُ: جس پر بخل کیا جائے۔ خاص۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ضَمَمِنٌ وَضَمَمِنِي" وہ میرے ساتھ شخص ہے۔
 الضَّمَمِنُ: ہمارا۔
 الضَّمَمِينُ: بخل۔ کہا جاتا ہے "إِنَّمَا يُضَمِّنُ بِالضَّمَمِينِ" یعنی بخل کے ساتھ بخل کیا جاتا ہے۔
 الضَّمَمَانِ: وہ چیزیں جن کی نفاست کی وجہ سے بخل کیا جائے اور اسی سے ہے "ضَمَمِنَ إِلَهُ" اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے خاص لوگ۔
 الضَّمَمَانَةُ: مہ۔ بخل کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَجَمَمْتُ عَلَيَّ الْقَوْمَ وَهُمْ يَضَمَمَانِيهِمْ" میں قوم پر اچانک بچھڑ گیا اور وہ لوگ متفرق نہیں ہوئے تھے۔
 الضَّمَمِنَةُ وَالضَّمَمِنَةُ: جس پر بخل کیا جائے۔ ج۔ ضَمَمَانٌ۔
 ضَمَمَانًا (ف) ضَمَمَانًا وَضَمَمَانًا: جھینا۔
 الضَّمَمَانُ: جانا۔
 الضَّمَمَانُ: کثیر ہونا۔ ضَمَمَانًا (ف) ضَمَمَانًا وَضَمَمَانًا: صفت ضَمَمِنَ (س) ضَمَمَانًا وَضَمَمَانًا: بہت اولاد والی ہونا۔ صفت ضَمَمِنٌ وَضَمَمَانَةٌ: ج۔ ضَمَمَانِيٌّ۔
 الضَّمَمَانَةُ وَضَمَمَانَةٌ: شرمنا اور منتہض ہونا۔
 الضَّمَمَانُ: اصل۔ معدن۔ کثرت نسل۔ ج۔ ضَمَمَانٌ۔
 الضَّمَمَانُ وَالضَّمَمَانَةُ: ضرورت۔
 ضَمَمِنَ (ن) ضَمَمِنَا بِهِ الْأَرْضَ: زمین پر چلنا۔
 ضَمَمِنَ بِالشَّيْءِ: بے خبر کرنا۔


ضَمَمِنَ (س) ضَمَمِنَا الشَّيْءَ: ہونا اور غموس ہونا۔
 الضَّمَمِنَةُ: بھینٹ کرنا۔
 الضَّمَمِنَةُ: بھینٹ کرنا۔
 الضَّمَمَانُ: کونیں وغیرہ پر بہت زیادہ بھینٹ کرنا۔
 ضَمَمِنَ (ک) ضَمَمِنَاكَ: ست رائے۔ ضعیف العقل۔ کمزور بدن والا۔ صفت ضَمَمِنٌ ج۔ ضَمَمِنًا (ک) ضَمَمِنَاكَ وَضَمَمِنَاكَ: بھگ ہونا۔
 ضَمَمِنَ ضَمَمِنًا: زکام زدہ ہونا۔
 ضَمَمِنَ ضَمَمِنًا: زکام میں مبتلا کرنا۔
 الضَمَمِنُ: بھگ۔ مذکر و مؤنث دونوں میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ ضَمَمِنٌ وَعَيْشَةٌ ضَمَمِنٌ"۔
 الضَمَمَانُ: مضبوط جسم والا۔ مذکر و مؤنث دونوں میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ ضَمَمَانٌ" وامرأة ضَمَمَانٌ: بڑا درخت۔
 الضَمَمَانُ وَالضَمَمَانَةُ: زکام۔
 الضَمَمَانَةُ: بھگ زندگی۔
 الضَمَمِيْنُ: بھگ زندگی۔ صرف خوراک پر خدمت کرنے والا۔ کسی ہوئی چیز۔
 ضَمَمِنَ (س) ضَمَمِنَا: (داری) مرض کی وجہ سے کمزور دلاغر ہونا۔ صفت ضَمَمِنٌ وَضَمَمِنًا: کہا جاتا ہے "تَرَكْنَهُ ضَمَمِيًّا وَضَمَمِيًّا" صفت ضَمَمِنٌ میں مذکر و مؤنث واحد جمع سب برابر ہیں اور ضَمَمِنٌ بکسر النون جب بولا جائے گا تو اس کیلئے تنہا جمع اور مؤنث کے صیغے استعمال کئے جائیں گے۔
 ضَمَمِنَ: جمع اَضَمَمَانٌ۔
 ضَمَمِنَا: مَضَمَانَةٌ الشَّيْءَ او الْأَمْرَ: مشقت برداشت کرنا۔
 أَضَمَمِنَا: اَضَمَمَانَةٌ: بیماری کا ست کر دینا۔
 الضَمَمِنُ: بیماری کی لاغری کی وجہ سے صاحب فراش ہونا۔
 الضَمَمِنُ: بھگ بیماری ہونا۔
 الضَمَمِنُ: بھگ بیماری ہونا۔
 الضَمَمِنُ: بیماری۔ لاغری۔ بد حال۔
 الضَمَمِنُ وَالضَمَمِنَةُ وَالضَمَمَانُ: اولاد۔ کہا جاتا ہے

<p>بلاجا۔ الضور۔ سخت بھوک۔ الضور۔ کل بدل۔ الضورة۔ ذیل 'تحیر' ضارَ یضورُ ضورًا۔ الضورة: پھل کو چبانے کا حقیقہ؛ کم کر دینا۔ ضوئی ضو ضوًا و ضیضاء۔ شور مچانا۔ الضوئی والضو ضا والضیضاء۔ شور و نوحا۔ ضوط۔ الأشياء جمع کرنا۔ تضوط۔ الشئ جمع ہونا۔ الاضوط۔ ٹیڑھے جڑے والا۔ بیوقوف۔ الضویطة۔ بیوقوف۔ حوش کی مٹی کا گلیلا خیر۔ ضاعة یضوع ضوعًا۔ حرکت دینا۔ رنجیدہ کرنا۔ بھڑکارنا۔ گھبرا دینا۔ ضاع المینک: بھگ کی خوشبو پھیلنا۔ الدابة: جانور کو ڈبلا کرنا۔ الضیعی: رونے میں تپ و تاب کھانا۔ تضوع المینک: بھگ کی خوشبو بھرنانا۔ الضیعی: رونے میں تپ و تاب کھانا۔ وانضاع الفیض: پرندہ کے بچے کا چوگرہ کے لیے اپنی ماں کی طرف پر پھیلانا۔ الضوع والضوع: نزلہ۔ رات کو اڑنے والے پرندوں میں سے ایک پرندہ۔ الضواع: نزلہ کی آواز۔ رجل معضوع: خوفزدہ۔ صاف یضوف ضوفاً۔ عن الشئ: الگ ہونا۔ ضان یضون ضونةً۔ زیادہ اولاد ہونا۔ الضونة۔ سم۔ چھوٹی بچی۔ الضیون۔ بلا۔ ج۔ ضیون۔ الضوة۔ شور۔ لڑائی کا شور۔ ضوی یضوی ضویً۔ خلتی یا لاغری سے تکی بڑی کا ہونا۔ ضوی یضوی ضیاً وضویاً۔ الیہ: ملنا۔ پناہ لینا۔ الرجل: رات کو آنا۔ ضوۃ الیہ: مائل کرنا۔ أضوی۔ ڈبلا ہونا۔ لاغر ہونا۔ الرجل: سے</p>	<p>کرنا۔ الضہل۔ مجمع دودھ۔ تھوڑا پانی۔ الضاہلة۔ من الغیون: تھوڑے پانی کا چشمہ۔ الضہواء۔ بے پستان عورت۔ الضہوة۔ جو بڑج انہما۔ ضہیت تضہی ضہی۔ المیزاة: عورت کا بغیر پستان اور بغیر دودھ کے ہونا۔ صفت ضہیاء ج ضہی۔ ضہیت الأرض: زمین میں کچھ نہ آگنا اور بغیر پانی کے پھیل میدان ہونا۔ ضاہی مضاہاة۔ الرجل: مشابہ ہونا۔ الضہی۔ مشابہ۔ ہم شکل۔ کہا جاتا ہے "ہو ضہیک" وہ تمہارا ہم شکل ہے۔ ضاء یضو ضوًا و ضوًا و ضیاء القمض و غیوہ: روشن ہونا۔ چمکانا۔ ضوۃ تضوۃ۔ التیث: روشن کرنا۔ عن الأثر: بھرجانا۔ أضاء إضاءة۔ التیث: روشن ہونا۔ التیث: روشن کرنا۔ تضوًا: تاریکی میں کھڑا ہونا تاکہ آگ کی روشنی میں لوگوں کو دیکھ سکے۔ تضوۃ: کسی ایسی جگہ مائل ہو جانا جس سے آگ کی روشنی سے دیکھ سکے۔ إضضاء یہ: روشن ہونا۔ من فلان: مشورہ کرنا۔ الضوع والضوع۔ روشنی۔ ج۔ أضواء۔ الضیاء والضواء۔ روشنی۔ الضوی والضوی۔ روشن۔ روشن کرنے والا۔ ضاج یضوج ضوجًا عن کذا: اعراض کرنا۔ بھرجانا۔ وانضاج الوادی: کشادہ ہونا۔ تضوۃ الوادی: وادی کا بہت تپ دار ہونا۔ انضوج فی ضوج الوادی: وادی کے موڑ میں داخل ہونا۔ الضوج۔ وادی کا موڑ۔ ج۔ أضواج۔ الضوجان۔ سخت خشک۔ مؤنث ضوجانہ۔ ضوج اللہن: دودھ میں پانی ملانا۔ ضارَ یضورُ ضورًا۔ سخت بھوک ہونا۔ ضارة الأثر: نقصان پہنچانا۔ تضوۃ۔ درد کی تکلیف یا بھوک سے تپ و تاب کھانا۔ الذئب و نحوہ: بھوک سے</p>	<p>"لہ ضوۃ کثیر" اس کی بہت اولاد ہے۔ الضیعی۔ بھلی بیماریاں۔ ضنت تضنی و ضینت تضنی ضنی و ضناء المیزاة: کثیر اولاد ہونا۔ ضنی نصیب فلان: حسرت کا بردھنا۔ ضہب (ف) ضہبًا بالتار: آگ سے متغیر کرنا۔ ضہبت (ف) ضہبتًا۔ کمزور ہونا۔ ضہبت اللحم: گوشت کو بریاں کرنا۔ القوم: نرم کرنے کے لیے آگ کے سامنے کرنا۔ صفت ضہبہاء ضہبت القوم: زیادہ ہونا اور تیز چلنا۔ ضاہبہ مضاہبہ۔ برا تاؤ کرنا۔ گلی گھوج کرنا۔ ضہبت القوم: مخلوط لوگ۔ الضہب۔ ہاڑ کا وہ گرم حسرت جہاں گوشت کو بھون سکتے ہوں۔ ضہبتہ (ن) ضہبتًا۔ سخت رونانا۔ ضہدہ (ف) ضہدًا۔ أضہدہ وأضہدہ وأضہدہ غلبہ کرنا اور ظلم کرنا۔ تکلیف دینا اور مجبور کرنا۔ الضہدہ۔ غلبہ اور تہ۔ کہا جاتا ہے ضہدہ لکل أحد یعنی ہر وہ شخص جو چاہتا ہے اسے مجبور کرتا ہے۔ الضہبت۔ سخت مضبوط۔ الضہر والضاہر۔ پھاڑ کی چھٹی۔ وادی۔ الضہر۔ کھورا۔ ضہرہ و ضہسہ (ف) ضہرًا و ضہسًا۔ سخت رونانا۔ الدابة: جانور کا اگلے واتوں سے کاٹنا۔ ضہل (ف) ضہلًا و ضہولًا۔ اللہن: تھوڑا تھوڑا جمع ہونا۔ التافؤ و نحوہا: تھوڑی دودھ والی ہونا۔ صفت ضہول ج ضہل ضہلہ۔ حقیقہ: حق کم کرنا (و تضہل) الی فلان: کسی کی جانب بغیر ارادہ جنگ کے لوٹنا۔ أضہل۔ التخل: کھجوریں پکنے لگنا۔ الی فلان مالا: مال کو فلاں کی طرف کرنا۔ إضضہل۔ الخیر: حسب امکان خیر طلب</p>
--	--	---

کمزور کرنا۔ ہ حَقَّةٌ: کم کرنا۔
 الأمر: کچا کام کرنا۔ اَضْوَاتُ المَوَازِ: کمزور پختہ
 جنا۔ اَضْوَاءُ الیَہِ: اپنی طرف مائل کرنا۔
 اِنضَوٰی العِضْوَانِ: الیَہِ: شامل ہونا۔ ملنا۔
 العِضْوٰی: فارمات کو آنے والا۔
 الضَّوِیُّ: کمزور ڈیلا۔ خَلَّتْ بِالْاَغْرٰی سے کمزور
 جسم والا۔ مَوْنَتْ حِصَانًا۔
 ضَاغٌ یَضِیغُ ضِیغًا وَضِیوُجًا وَضِیغَانًا
 عَثَّةً وَ الیَہِ: جھکانا۔ مائل ہونا۔ ضیاحت
 عِظَامَةٌ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔
 ضَاخَتْ تَضِیغُ ضِیغًا۔ اِلْبَادُ: خالی ہونا۔
 ضَاخٌ وَ ضِیغٌ: اللِّیْنُ: پالی ملانا۔ ضِیغٌ
 فَلَانًا: پالی ملا ہوا دودھ پلانا۔
 تَضِیغُ اللِّیْنِ: پالی میں دودھ ملنا۔
 الزَّجْلُ: پالی ملا ہوا دودھ پینا۔
 الضَّیغُ: شہد۔
 الضَّیغُ وَ الضَّیاحُ: پالی ملا ہوا دودھ۔ شور پنا۔
 الضَّیغَةُ: پالی لے ہوئے دودھ کی ایک مرتبہ
 پینے کی مقدار۔
 ضَاوَةٌ یَضِیغُہُ ضِیوًا۔ الأمر: نقصان دینا۔
 ضَاوَةٌ یَضِیغُہُ ضِیوًا۔ ظلم کرنا۔ ضَاوَةٌ حَقَّةٌ:
 کم کرنا۔
 الضَّیغُ: شیرہ۔ کئی۔
 قِسْمَةٌ ضِیغٌ: ناقص تقسیم۔ خالمانہ تقسیم۔
 ضَاغٌ یَضِیغُ ضِیغًا وَ ضِیغَانًا۔ فِی مَشِیئَتِہِ۔
 موٹاپے کی وجہ سے چلنے میں جسم اور موٹاپوں کو
 حرکت دینا۔ صفت ضِیغَانٌ وَ ضِیغَاتٌ۔
 ضَاغٌ یَضِیغُ ضِیغًا وَ ضِیغًا وَ ضِیغَةً
 وَ ضِیغًا۔ ضَاغٌ ہوتا۔ تلف ہونا۔ بیکار ہونا۔
 صفت ضَاغٌ جِ ضِیغٌ وَ ضِیغٌ۔
 اَضَاعَہُ: ضائع کرنا۔ اَضَاعَ الزَّجْلُ: بہت
 جائیداد والا ہونا۔
 تَضِیغٌ: المِسْلُ: مٹک کا بھرننا۔ مٹک کو
 خوشبو کا پھیننا۔
 الضَّیغُ: مد۔ ایک قسم کی خوشبو۔ بے فائدہ۔
 کہا جاتا ہے "مَاتَ ضِیغًا وَ ضِیغًا وَ ضِیغًا"
 یعنی مر گیا اور کسی کو اس کی پروا نہ ہوئی۔
 الضَّیغَةُ: جائیداد۔ زمین میر حاصل۔ اس کی

تصغیر ضِیغَةٌ ہے اور جمع ضِیغٌ وَ ضِیغٌ وَ
 ضِیغَاتٌ۔ الضَّیغَةُ: پیشہ۔ کہا جاتا ہے "كَانَتْ
 ضِیغَةُ القَرَبِ بِنِیْسَانَتِہِ الِابِلِ" عرب کا پیشہ
 اونٹوں کا انتظام کرنا تھا۔
 المِضْیغُ: بہت ضائع کرنے والا۔
 المِضْیغَةُ وَ المِضْیغَةُ: موضع ہلاکت۔ جہاں
 ضائع ہونے کے اسباب زیادہ ہوں۔ کہا جاتا ہے
 "تَلَدَّ كُمْ مِضْیغَةُ العِلْمِ" تمہارے شہر میں ظلم
 کے ضائع ہونے کے اسباب بہت ہیں۔
 ضَاغٌ یَضِیغُ ضِیغًا الیَہِ: مائل ہونا۔ ہٹ
 جانا۔ ضَاغَاتُ الشَّمْسِ: آفتاب کا غروب کے لیے
 مائل ہونا۔ السَّہْمُ عَنِ المَہْدَفِ: تیر کا
 نشانہ سے ہٹ جانا۔ الزَّجْلُ: خوف کرنا
 ۔ مَنہ: پرہیز کرنا اور ڈرنا۔
 ضَاغٌ یَضِیغُہُ ضِیغًا وَ ضِیغًا۔ ممان ہونا۔
 ممانی طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "ضَاغٌ المَہْمُ
 فَلَانًا" یعنی فلاں پر غم نازل ہوا۔
 ضِیغٌ: ممان بنانا۔ ممانی کا کھانا پیش کرنا۔
 ضِیغٌ الیَہِ: جھکانا۔ ضِیغٌ الزَّجْلُ: مائل ہونا۔
 ہٹ جانا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے
 لیے مائل ہونا۔
 اَضَافَ الزَّجْلُ: دوڑنا۔ جلدی چلنا۔ خوف کرنا
 ۔ الشَّقُّ الِی الشَّقِّ: جھکانا۔ سارارنا۔ ملانا
 ۔ الزَّجْلُ: پناہ دینا۔ مجبور کرنا۔ مَنہ: مَنہ:
 چرکنا رہنا۔ عَلَیہِ: جھانکنا۔ فَلَانًا
 عَلَی فَلَانٍ: ممان اتارنا۔ الکَلِمَةُ الِی
 الکَلِمَةُ: ایک کی نسبت دوسرے کی طرف
 طریقہ مخصوص پر کرنا۔
 تَضِیغٌ: ممان ہونا۔ طلب ضیافت کرنا۔
 تَضِیغُ الزَّجْلُ: مائل ہونا۔ الشَّمْسُ:
 غروب کی طرف مائل ہونا۔
 اِنضَاغٌ الیَہِ: ملنا۔
 تَضَايَفٌ الزَّادِی: ٹھگ ہونا۔
 اِسْتَضَاغٌ: ضیافت طلب کرنا۔ اِسْتَضَاغٌ بِہِ:
 فریاد کرنا۔ مِنَ فَلَانٍ الِی فَلَانٍ: پناہ لینا۔
 الضَّیغُ: ممان (واحد و جمع) مَوْنَتْ ضِیغٌ وَ
 ضِیغَةٌ جِ اَضْیَاغٌ وَ ضِیوُفٌ وَ ضِیغٌ وَ
 ضِیغَانٌ وَ اَضَايِفٌ۔

الضَّیغُ: طفل۔
 الضَّیغُ: ہلو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِی ضِیغٍ
 فَلَانٍ" وہ فلاں کے ہلو میں ہے۔
 الضَّیغَةُ: ممانی کا کھانا۔
 المِضْیَاغُ فِی الحِزْبِ: جو جنگ میں گھر گیا
 ہو جو قوم کے ساتھ چپکرا گیا ہو۔
 المِضْیغُ وَ المِضْیغَةُ: ممانی کی جگہ۔
 المِضْیغَاتُ: بہت ممانوں والا بیڑیاں۔
 المِضْیغَةُ وَ المِضْیغَةُ: حزن۔ غم۔
 مِضَايِفٌ: الزَّادِی: وادی کے ہلو۔
 ضَاغٌ یَضِیغُ ضِیغًا وَ ضِیغًا: ٹھگ ہونا۔
 صفت ضِیغٌ وَ ضَايِفٌ وَ ضِیغٌ: الزَّجْلُ:
 بھل کرنا۔
 ضِیغَةٌ تَضِیغُہُ: ٹھگ کرنا۔ ضِیغٌ عَلَیہِ: سختی
 کیا جاتا۔
 اَضَاغٌ اَضَاغَةً: ٹھگ کرنا۔ اَضَاغٌ الزَّجْلُ:
 محتاج ہونا۔
 تَضِیغٌ وَ تَضَايِفٌ: ٹھگ ہونا۔ وَ تَضَايِفٌ الامْرُ
 بِہِ اَوْ عَلَیہِ: ٹھگ ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَضَايِفٌ
 القَوْمُ" یعنی قوم کشادہ دل نہیں یا ان کے مکان
 کشادہ نہیں۔
 ضَايِفَةٌ مِضَايِفَةٌ: سختی کرنا۔
 الضِّیغُ وَ الضِّیغُ: سختی۔ حزن۔ غم جس سے
 ٹھگ دلی ہو۔
 الضِّیغُ وَ الضِّیغُ: ٹھگ۔
 الضِّیغَةُ وَ الضِّیغَةُ: بد حال۔ محتاجی۔ جِ ضِیغٌ
 وَ ضِیغٌ۔
 الضَّايِفُ: نا۔ ٹھگ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ ضَّايِفٌ
 صَدْرُهُ بِکَذَا" فلاں وجہ سے ٹھگ دل ہے۔ جِ
 ضَاغَةٌ جِیسے سائید کی جمع سَادَةٌ۔
 الاَضِیغُ: بہت ٹھگ۔ مَوْنَتْ ضِیغٌ وَ ضِیغٌ:
 المِضْیغُ: ٹھگ جگہ۔ مشکل کام۔ گھٹلی۔ جِ
 مِضَايِفٌ۔
 ضَاغَةٌ یَضِیغُہُ ضِیغًا: ظلم کرنا۔ مجبور کرنا۔
 ضَاغَةٌ اِسْتَضَاغَةً: حَقَّةٌ: کم کر لینا۔
 الضَّیغُ: ظلم۔ جِ ضِیغٌ۔
 ضِیغٌ: الجَبَلِ: پہاڑ کا کنارہ۔
 الضَّیغَةُ: حاجت۔ ضرورت۔



طَبِيخ (ف ن) طَبِيخًا وَ طَبِيخًا. اللَّحْمُ: كُورِشَت پَكانا۔ طَبِيخُ الصَّبِيِّ: بچّے كا حرڪت كرنا۔

بُورِهنا۔

اِنطَبَخَ: پَكانا۔

اَطْبَخَ: الرُّجُلُ: اِنپے ليے پَكانا۔

اللَّحْمُ: كُورِشَت پَكانا۔

الطَّبِيخُ وَالطَّبِيخُ: جو كچھ پَكانا جائے۔

الطَّبَاخَةُ: بانڈي كے جھاگ۔ كچي هونكي چيز۔

الطَّبَاخَةُ: باورچي گيري۔

الطَّبَاخُ: پَكانے والا۔ اور اس كو طباي بهي كتے

پيں اور استعمال عوام ميں طبايخ كا طلاق انگي لمبي

پر هوتا ہے اور حسن يہ ہے كہ اس كو منصب كہا

جائے۔

الطَّبِيخُ: كچي هونكي چيز۔ چونہ۔ كچي اينٹ۔ ج

اَطْبَحَتْ:

الطَّبَايِخُ: پَكانے والا۔ سخت۔ بخار۔

الطَّبَايِخَةُ: مؤنث طبايخ۔ دوپہر۔

الطَّبَاخُ وَالطَّبَاخُ: مضبوطي۔ قوت۔ موٹاپا۔

كہا جاتا ہے ”مَنَافِي كَلَامِهِ طَبَاخٌ“ يعني كوئي

فائدہ نئيں۔

الْأَطْبِيخُ: بہت زيادہ پو قوف۔

المَطْبِيخُ: باورچي خانہ۔ ج مطبايخ۔

المَطْبِيخُ: پَكانے كا وزارت۔ ج مطبايخ۔

المَطْبِيخُ وَالْمَطْبِيخُ: باورچي خانہ۔

طَبِيخُ (ن) طَبِيخًا: اچھلا۔ کودنا۔ چھپنا۔

الطَّبِيخُ وَالطَّبِيخُ: كہلاؤ (يہ دونوں گلے

دشيل پيں)

الطَّبَايِخُ: انجیر كے مشابہ ايک درخت۔ واحد

طَبَايِخَةٌ.

الطَّبِيخِيُّ: طبرستان كي طرف منسوب۔

ہے ”أَنَا أَطَابُ هَذَا الْأَمْرَ مُنْذُ جِئْتُ كُنْتُ أَبْلَغُهُ“

يعني ميں ايک مدت سے اس امر كي مشق و مزاولت

كر رہا ہوں تاكہ اس كو حاصل كروں۔

تَطَبَّبَ: الرُّجُلُ: طَبِيبٌ بِنَا _____ لِفُلَانٍ:

علاج كرنا۔

اِسْتَطَبَّهُ: دوا تجویز كرنا۔

الطَّبُّ: طَبِيبٌ۔ حَازِقٌ۔ كہا جاتا ہے ”هُوَ طَبُّ

يَهَذَا الْأَمْرِ“ يعني وہ اس امر كا عالم ہے۔ طَبِيبٌ۔

الطَّبُّ: ارادہ۔ خواہش۔ حال۔ شان۔ عارت۔ كہا

جاتا ہے ”فُلَانٌ طَبِيهُ الْمَجُونِ“ فلاں كي عادت

مذاق كي ہے۔

الطَّبُّ وَالطَّبُّ وَالطَّبُّ: جسماني اور روحاني

علاج۔ نرمي۔ جاود۔

الطَّبِيَابُ: جس سے علاج كيا جائے۔ كہا جاتا ہے

”هَذَا اطِّبَابٌ مَرَضِكَ“ يعني يہ تمہارے مرض كا

علاج ہے۔

الطَّبِيَّةُ: مؤنث۔ طَبُّ: گوشہ۔ كہا جاتا ہے ”هُوَ

فِي تِلْكَ الطَّبِيَّةِ“ يعني وہ اس گوشہ ميں ہے۔

الطَّبِيَّةُ ج طَبِيْبَةُ: ج طَبَايِخُ: زمين،

كپڑے، كھال يا بادل كا مستطيل كٹا۔ والطَّبَايِخَةُ

مِنَ الْخَوْرِ: منگ كے نچلے حصہ ميں دو سوراخوں

كے درميان كا چيز۔

الطَّبِيْبُ: فَن طَب كہ جانے والا۔ فَن طَب كہ

ماہر ج اَطْبَحَهُ: اَطْبَاغَهُ۔ مؤنث طَبِيْبَةٌ۔

المَطْبِيْبُ: محرزہ۔ جس پر جاود كا اثر ہو۔

طَبِيخُ (س) طَبِيخًا: الرُّجُلُ: يُو قوف ہونا۔

صفت اَطْبَحَ _____ عَلَيَّ زَائِبَةٌ وَعَلَيَّ كُنْتُ

أَجُوبُ: سر پر يا ہر كھوكھلي چيز پر مارنا۔

تَطَبَّبَ: فِي الْكَلَامِ: مَخْتَلَفٌ زَعْمُونَ فِي مَقْتَلُو

كرنا۔

طَاطَأَ: الرُّؤَسُ وَ غِيْرَهُ: پست كرنا۔ كہا جاتا

ہے ”طَاطَأَ رَأْسَهُ عَنِ كَعْدًا“ يعني فلاں چيز سے

اس نے اپنے سر كو پست كر ليا _____ فَرَسَهُ:

گھوڑے كو تيز دوڑانے كيلئے اس كي دونوں

رانوں ميں ايز لگانا۔ طَاطَأَتِ الْمَرْزَاةُ بِسُرْحَا:

عورت كا پردہ ڈالنا! طَاطَأَ يَدَهُ بِالْعَبَانِ لِكَلَامِ كُو

ذُصِيلًا جُورُنَا _____ الْخُفْرَةَ: گڑھے كو گھرا كرنا۔

فُلَانٌ مِّنْ فُلَانٍ: كسي كو مرتبے سے گرا دينا۔

طَاطَأَ فِينِ قَتْلِ الْقَوْمِ: قوم كے قتل كرنے ميں

مبالغہ كرنا۔ مخني برتنا۔

تَطَاطَأَ: پست ہونا۔

الطَّاطَأُ: پست زمين۔ چھوٹا اونٹ۔

الطَّاطَاةُ: كچيز۔

طَبِيَّةُ (ن ض) غَطَا: علاج كرنا۔ طَبُّ الرُّجُلُ:

جلد بازي نہ كرنا۔ نرمي كرنا۔ اور اسي سے مثل ہے

”مَنْ أَحَبَّ طَبُّ“ يعني جو دوست رکھتا ہے نرمي

كرتا ہے اور كہا جاتا ہے ”إِصْنَعُهُ صِنْعَةَ مَنْ

طَبُّ لِمَنْ حَبَّ“ يعني معاملہ كر اس شخص جيسا

جو كسي كے ساتھ محبت كرتا ہے تو نرمي كرتا ہے

_____ خَوْرُ الْقَرْيَةِ: منگ ميں بيوند لگانا۔ عام

لوگ كتے پيں ”طَبُّ عَلَيَّ وَ جِيْهِ“ يعني وہ اپنے

منہ كے تل اوندھا ہو گیا اور صواب اَكْتَبَ ہے

اور كہا جاتا ہے ”مَا كُنْتُ طَبِيْبًا وَقَدْ طَبَّبْتُ“ اور

طَبَّبْتُ“ يعني تم طَبِيْبُ نئيں تھے اور بن گئے۔

طَبُّ الرُّجُلُ: جاود كيا جانا۔

طَبَّبَهُ: علاج كرنا۔ طَبَّبَ الْحَيَاظُ الْفُؤْبُ:

درزي كا كپڑے ميں كشادہ ہونے كے ليے جوڑ

لگانا۔

الْقَرْيَةُ: منگ كے سوراخ پر بيوند لگانا۔

طَبَّابٌ مَطَابَةٌ: الْأَمْرُ: مزاولت كرنا۔ كہا جاتا

عَلَى الْعَمَلِ: حاوی ہوتا ہے۔ بِالْحَقِّ: اقرار کرنا۔ یقین کرنا۔ الْمَقْبُذُ: قیدی کا چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔ الْفَرَسُ فِي جَزْبِهِ: اگلی ٹانگوں کی جگہ میں پھیلے ٹانگوں کو رکھنا۔ أَطَبِقَ الشَّيْءُ: ڈھانپنا۔ اللَّيْلُ: تاریک ہونا۔ الشُّجُومُ: کثرت سے ظاہر ہونا۔ الرِّخِيُّ: ایک پاٹ کو دوسرے پاٹ پر رکھنا۔ کما جاتا ہے "أَطَبِقُ شَفْتَيْكَ" یعنی چپ رہ۔ أَطَبِقُ الزَّائِعِ: رُكُوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو کھٹنے کے درمیان کر لینا۔ أَطَبَقُوا: عَلِيُّ الْأَمْرِ: اجماع کر لینا۔ أَطَبَقَتِ الْحُمَى: بخار کا لگنا رہنا۔ کما جاتا ہے "مَا أَطَبَقَ فَلَانًا" یعنی وہ کیسا حاذق ہے۔ تَطَابَقَ الْقَوْمُ: اتفاق کر لینا۔ تَطَلَّقَ وَأَنْطَبَقَ الشَّيْءُ: بند ہونا۔ الطَّبَقُ: مطابق۔ کما جاتا ہے "هَذَا طَبَقُ ذَاكَ" یعنی یہ اس کے مطابق ہے۔ دن کا حصہ۔ لاسہ جس سے پردوں کا شکار کیا جائے۔ ایک درخت کا پھل الطَّبَقُ مِنَ النَّاسِ: جماعت۔ الطَّبَقُ: مطابق۔ پردہ۔ طَشْتَرَى: جِ أَطَبَقَ الطَّبَقُ: سَاحِ زَمِنِ رِيْضَ كِي بُدَى مِنْ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ: دن رات کا بڑا حصہ۔ کما جاتا ہے "أَقَمْتُ عِنْدَهُ طَبَقًا مِنَ التَّهَارِ" یعنی میں نے اس کے پاس دن کے بوسے حصے میں اقامت کی۔ مِنْ الْمَطَرِ: عام بارش۔ کما جاتا ہے مَطَرِ طَبَقٌ وَدَيْمَةٌ طَبَقٌ حَالٌ: کما جاتا ہے "الذَّهْرُ أَطَبَقَ" یعنی زمانے کے مختلف احوال ہیں۔ جماعت۔ کما جاتا ہے "مَضَى طَبَقٌ بَعْدَ طَبَقٍ" یعنی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت گزرتی ہے۔ "حَاءُ طَبَقٌ مِنْ حَوَائِدِ" یعنی ٹیڈوں کی جماعت آئی۔ "أَطَبَقَ الرَّاسُ" سر کی ہڈیاں۔ بَنَاتُ طَبَقٍ: مہینتیں۔ کچھوسے۔ سانپ۔ أُمُ طَبَقٍ: مہینت۔ الطَّبَقَةُ: جال۔ پھندا۔ دن کا ایک حصہ۔ جِ طَبَقٌ وَطَبَقٌ: الطَّبَقَةُ: مرتبہ۔ حال۔ کما جاتا ہے "ان كُتِبَهُ إِلَيَّ طَبَقَةٌ" اس کے خطوط میری طرف متواتر آئے۔ جِ طَبَقَاتٌ:

الطَّبَعُ: کینہ۔ سَيْفٌ طَبَعٌ: زنگ آلود گنوار۔ الطَّايِعُ وَالطَّبَاعُ: خلقی عادت۔ الطَّايِعُ وَالطَّبَاعُ: ہر وہ چیز جس سے ہنری جائے۔ جِ طَبَوَاعٍ: کما جاتا ہے "هَذَا كَلَامٌ عَلَيْهِ طَبَاعُ الْفَصَاحَةِ" یعنی یہ ایسا کلام ہے جس پر فصاحت کی مرہ ہے۔ الطَّبَاعُ: طَبَاعِ اس مفاعل کا مبالغہ۔ الطَّبَاعَةُ: گنوار سازی۔ چھاپنے کا پیشہ۔ ذَا الطَّبَاعَةِ: گنوار سازی کا کارخانہ۔ چھاپنے کی جگہ۔ الطَّبِيعَةُ: خلقی و جبلی عادت۔ جِ طَبَائِعِ الطَّبَائِعِ الْأَزْيَعِ: سردی۔ گرمی۔ خشکی۔ تری۔ الطَّبِيعِي: جو طبیعت کے ساتھ شخص ہو۔ جو ہر چیز کو طبیعت کی طرف منسوب کرے۔ جو عظیم طبیعت کا ماہر ہو اور عظیم طبیعت وہ عظیم ہے جس میں طرائق اشیاء سے بحث کی جائے۔ الطَّبِيعَانِ: ہر۔ کما جاتا ہے "هَذَا طَبِيعَانِ الْأَمِيرِ" یہ امیر کی مرہ ہے۔ الْمَطْبِيعَةُ وَالْمَطْبِيعُ: چھاپنے کی جگہ۔ جِ مَطْبِيعِ الْمَطْبِيعَةِ: چھاپنے کا آلہ۔ پریس۔ جِ مَطْبِيعِ الْمَطْبِيعِ: مَقَم۔ چھپا ہوا۔ پسندیدہ۔ مِنْ الشُّعْرَاءِ: جو بلا تکلف اشعار کرے۔ طَبَقَتْ (س) طَبَقًا وَطَبَقًا يَذُو: بند ہونا۔ پہلو سے لگنا۔ طَبَقَ يَفْعَلُ الشَّيْءُ: شروع کرنا۔ کرنے لگنا۔ طَبَقَ الشَّيْءُ: عام ہونا۔ السَّحَابُ الْجَوُّ: بادل کا نفا کو گھیر لینا۔ الْمَاءُ وَجْهَ الْأَرْضِ: ڈھانپ لینا۔ السَّيْفُ الْمَفْصَلُ: گنوار کا جوڑ کو جدا کرنا۔ کما جاتا ہے "إِنَّهُ يَطْبِقُ الْمَفْصَلَ" جبکہ جنت میں غالب ہو۔ طَبَقَ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ: حاکم کا درست فیصلہ کرنا۔ الْفَرَسُ فِي عَذْوِهِ: دوڑنے میں ایک ساتھ دونوں ٹانگوں کا اٹھانا اور اٹھاننا کرنا۔ طَبَقَهُ طَبَقًا وَطَبَقًا وَمُطَابَقَةً: موافقت کرنا۔ طَبَقَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: دونوں کو ایک طریقہ پر کرنا۔ بَيْنَ قَمِيصَيْنِ: ایک کے اوپر ایک پہننا۔ هُ عَلَى الْأَمْرِ: برابری کرنا۔ الرَّجُلُ

طَبَقَهُ (ن) طَبَقًا: بھرنے۔ الطَّبَرُ: پھاڑ کا مضبوط کنارہ۔ دو کوہان کا اوٹ۔ طَبَسَةُ: گارے سے لپٹا۔ الطَّبَسُ: ہر ایک کالی چیز۔ الطَّبَسُ: بھیرنا۔ بَحْرُ طَبِيشٍ: بست پانی والا سمندر۔ الطَّبِيشُ: لوگ۔ الطَّبِيشَةُ: استعمال عوام میں بچوں کے مارنے کی لمبی چمڑی اور فصیح لفظ مخففہ ہے۔ طَبَقَتْ طَبَقَةً: الْمَاءُ: او السَّيْلُ: پانی یا سیلاب کا آواز کرنا۔ الْوَادِي: دوادی کا بہنا۔ الْمَاءُ: پانی کو حرکت دینا۔ الطَّبِيطَةُ: گینہ کالا۔ الطَّبِيطَةُ: کوڑا۔ طَبَعُ (ف) طَبَعًا الشَّيْءُ: کسی چیز کی تصویر بنانا۔ عَلَيْهِ: مر لگنا۔ الدَّهْرُ: سکہ ڈھاننا۔ السَّيْفُ: گنوار بنانا۔ ڈھاننا۔ الْمَلَّةُ الْخَلْقُ: پیدا کرنا۔ الدَّلْوُ: ڈول بھرنا۔ کما جاتا ہے "طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر ہر کردی جس کی وجہ سے وہ خیر کی توفیق سے محروم ہے۔ طَبَعُ (س) طَبَعًا: میلا چکلا ہونا۔ عیب دار ہونا۔ السَّيْفُ: گنوار کا زنگ آلود ہونا۔ صفت طَبَعٌ وَأَطَبَعُ: طَبَعٌ عَلَى الْجَهْلِ: پیدا کیا جانا۔ طَبَعُ الْإِنَاءِ: بھرنے۔ گندا کرنا۔ عوام کہتے ہیں "طَبَعُ الدَّيْثَةِ" یعنی سدھا لیا۔ فصیح لفظ اس کے لیے "زاضها" ہے۔ قَطَطَعَ: بھر جانا۔ ڈھلنا۔ بَطْبَاعُ آيْتِهِ: باپ کے اخلاق اختیار کرنا۔ التَّهَارُ الْمَاءُ: سر کا کناروں سے برہ نکلنا۔ أَنْطَبَعَ: بھر جانا۔ ڈھلنا۔ الطَّبَعُ: پیدا کئی عادت۔ مثال۔ نمونہ۔ کما جاتا ہے "إِضْرِبْنِي عَلَى طَبَعِ هَذَا" یعنی اس کو اس کے نمونہ پر بناؤ۔ جِ طَبَاعُ: الطَّبَعُ: پانی جذب ہونے کی جگہ۔ پیمانہ بھر۔ مقلیدہ۔ نمر جِ طَبَعُ وِ طَبَاعُ () وَالطَّبَعُ: زنگ میل کیل۔ عیب۔ جِ أَطَبَقَ:

الطخار۔ سخت قسم کی بچپش جس میں آدمی آہ آہ کرنے لگے۔	الطنبنة۔ طنبور کی آواز۔ ایک کھیل۔	الطریق۔ بند۔
الطخزور۔ بدلی۔ ج طخاریر۔ الطخاریر: بادل کے ٹکڑے۔	الطابون۔ گڑھا جس میں حفاظت کے لیے آگ کو دیا جائے۔	الطریق۔ رات کا ایک حصہ۔ ج طریق (_____ و الطریق) مطابق۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَرِيقٌ ذَاكَ" اور طِبَاقُهُ" یعنی یہ اس کے مطابق اور موافق ہے۔ طِبَاقِ الْأَرْضِ: زمین کی سطح۔
طخوب۔ تیز دوڑنا۔ القزبة: منگ بھرنا۔ گوز کرنا۔	الطنبجة۔ تہیز۔ ج طنبنجات۔	الطابق و الطابق۔ کڑا ہی۔ آدمی بکری۔ ج طواقب و طواقب۔
الطخوب۔ کوڑا کرکٹ۔	طباہة یظنونة طباہة او اظباہة اظباہة۔ پکارنا۔ بلانا۔	الطابق و الطابق و الطابق۔ شیشہ۔ بڑی پکی اینٹ (اور یہ دخیل ہے)
الطخوب۔ مُفَلَّئَةٌ۔ بادل یا کپڑے کا ایک ٹکڑا۔ طخطححة۔ توڑنا۔ طخطحح القوم بالقوم: متفرق کرنا۔ ہلاک کرنا۔ مالهہ: بکھیرنا۔	طباہة یظنونه طبیباً۔ کھینچنا۔ ہعنة۔ باز رکھنا۔ والیہ: بلانا۔	المطابق۔ زمین کے نیچے قید خانہ۔ الجئون المطابق۔ اگر اجنوں۔ سنہ مظففة: سخت قحط۔ المطبیقات: مہینیں۔ الخوروف المطبیقة: مس ضابطہ۔
طخطحح الرجل: ہلکی ٹہنی بننا۔ تططحطح۔ ٹوٹنا۔ متفرق ہونا۔ ہلاک ہونا۔ بکھیرنا۔	طبت تطبی طیبی۔ النافقة: ڈھیلے تھنوں والی ہوتا۔	المطابق۔ صاحب الرائے۔ سحابہ مظففة: تمام زمین پر سنے والا بادل۔
طخله (ف) طخلأ۔ تلی پر مارنا۔ طخل الإناة۔ برتن بھرنا۔	الظنواء و الطیبة۔ من التورق: ڈھیلے تھنوں والی اور تلی۔	المطابق۔ صاحب الرائے۔ سحابہ مظففة: تمام زمین پر سنے والا بادل۔
طخل (س) طخلأ و طخلأ۔ تلی کا بڑھنا۔ الماء: پانی کا بڑھنا۔	ظن (س) ظنأ۔ الشئی: پاؤں یا ہتھیلی سے مار کر جگہ سے ہٹانا۔	طبل (ن) طبلأ و طبل۔ ڈھول بجانا۔ عوام کہتے ہیں۔ طبل فی المنشی: یعنی چلنے میں تھک گیا اور صحیح لفظ بطل ہے۔
طخل طخلأ۔ تلی کی بیماری ہونا۔ صفت مظخون۔	الظن۔ بچوں کا ایک کھیل جس میں گول لکڑی کو پھینکتے ہیں۔	الطبل۔ ڈھول۔ ج طبلول و اظبال۔
الطخال۔ تلی۔ ج اظحله و طخل و طخالات۔	المظففة۔ بچوں کے کھیل کی ایک گول لکڑی۔	الظبال۔ ڈھول بجانے والا۔
الطخال۔ مرض جو تلی کو لاحق ہو۔	ظن (ن) ظنر او ظنور او ظنر۔ اللبن: دودھ کا بالائی والا ہونا۔ صفت طائز۔	الطبالة۔ ڈھول بجانے کا پیشہ۔
الطخله۔ خاکستری رنگ۔	الظنرة۔ کچڑا۔ کالی۔ بالائی۔ غلیظ پالی۔ وسعت عیش۔ بھیر کا اون۔	الظبلیة۔ خراج کے روپے۔ ج ظبلیات۔
الأطخل۔ خاکستری رنگ والا۔ مؤنث طخلأ ع طخل۔	أظنر الشئی: زیادہ کرنا۔	الظوبالة۔ مادہ بھیر۔ ج ظوبالات۔
الطخلج۔ بڑی تلی والا۔ غفیناک۔ بھرا ہوا۔ کچڑ والا پانی۔	ظحن (ن) طحنأ و ظحن۔ الشئی: بھونا۔	ظبن (ض) ظبنا۔ التاز: آگ کو دیا جاتا۔
الطخل۔ عند الغامیة: باریک تنگے اور فصیح لفظ حن ہے۔	الطاجن و الطینجن۔ کڑا ہی۔ ج طیناجن و طواجن (اور یہ دونوں گے دخیل ہیں) المظحن۔ بھنا ہوا۔	ظبن (ض) ظبنا ظبن (س) ظبنا و ظبانة و ظبانیة و ظبونة۔ الشئی و لبشئی۔ سمجھ دار ہونا۔ صفت ظبن و ظبان۔
طخلب۔ الماء: کالی والا ہونا۔ صفت مظخلب۔ مظخلب۔ الأرض: سرسبز ہونا۔ الرجل: قتل کرنا۔	طخوت (ف) طخوا۔ العن قذاها: خس و خاشاک کو دور کرنا۔ نکال پھینکنا۔ صفت طخوزة الریح السحاب: ہوا کا بادل کو اڑا دینا۔	"أَمْ الظبن هو" یعنی وہ کون آدمی ہے۔
الطخلب و الطخلب و الطخلب۔ کالی۔ ایک ٹکڑا کالی کا۔	طخو (ض) طخوا و طخیرا و طخازا۔ آہ کرنا۔	الظبن۔ طنبور یا ربط۔
طخلبة۔ کہا جاتا ہے "مَاعَلَيْهِ طخلبة" یعنی اس کے اوپر بال نہیں۔	الطخو و الطخر۔ متفرق پتلے پتلے بادل۔	الظبن۔ گہرا کوڑا کرکٹ جس کو ہوا اڑالائے۔
طخم (ف) طخمه۔ علینہ: کودنا اور حملہ کرنا اور یہ استعمال عوام ہے اور ممکن ہے کہ یہ قحتم	الطخوة و الطخوة۔ بادل کا ٹکڑا۔	الظبن و الطبن و الطبن و الطبن۔ مردار جو گدھوں اور درندوں کے شکار کیلئے جال میں رکھا جائے۔ اعرابوں کا ایک کھیل۔
	الطخور و المظخو۔ من القیسی: دو پھینکنے والی کمان۔	الطنبنة۔ سمجھ۔ ج طبن۔

ستاروں کا روشن ہونا — یثدہ: زخم کی وجہ سے گر جانا۔ الرجل من السطح: گرنا۔
أظرة: گرنا۔ کانا۔ دھکارنا۔ اظرة علی الأظور: براگینتہ کرنا۔
ظوزت الجارية: لڑکی کا اپنی زلفوں کو سنوارنا۔

الظرة: کنارہ ج اظراؤ۔ کہا جاتا ہے ”ہو یخمنی اظراؤ الجلاوی“ یعنی وہ اطراف بلاد کی حفاظت کرتا ہے۔ ”و جاوراً ظراً“ یعنی سب آئے۔
الظرة: کمر۔

الظرة: پیشانی۔ پیشانی کے بال۔ کپڑے کا نقش و نگار۔ کنارہ۔ کتاب کا حاشیہ۔ نر کا کنارہ۔ وادی کا کنارہ۔ بادل کا لبا کلا۔ ج ظرات و ظرد و طزار و اظراد اور اس لفظ کو اس علامت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو شاہی فرامن وغیرہ میں لکھا جاتا ہے جس میں بادشاہ کا نام مع لقب کے ہوتا ہے اور صواب لفظ ظغراء ہے۔

غلام ظاراً و ظریئاً: جوان جس کی سس بھیک گئی ہوں۔ سنان ظریئاً: تیز تیز۔
المظفر: فاعل غضب مظرف: بے موقع غضب۔
الظربان: تشری۔ طباق۔

المظرة: عادت۔ کہا جاتا ہے ”لہم مظرة حسنة“ ان کی اچھی عادت ہے۔
ظراً (ف) ظراً و ظرواً: علیہم: دور سے اور اچانک آجانا۔ کہا جاتا ہے ”ظرة علی ہم لا اظیفة“ میرے اوپر ایسا غم آچرا ہے جس کی مجھے طاقت نہیں۔

ظرواً (ک) ظرواً: عطاء و ظرواء: التیاب۔ تروازہ ہوتا۔ صفت ظریئاً۔
أظرة: حد سے زیادہ مدح کرنا۔
الطاری: فاعل۔ جنسی۔ مسافر۔ غیر اصلی۔ ج ظرواء ظرواً۔

الطاریة: مؤنت طاری۔ مصیبت۔ ج طوادری و طارنات۔ اور طاریة کو ان لوگوں پر بھی بولا جاتا ہے جو غیر ملکی ہوں اور کسی جگہ آباد ہو جائیں۔

الظزان: راستہ۔ آمر منکر۔ غیر پندیدہ بات۔

الطحیة: بادل کا کلا۔
طخ (ن) طخاً: الشی: بھینکا اور زور کرنا۔ (طخوفاً) بد غلق ہونا۔
المطخعة: ایک کلاڑی جس سے بچے کھیتے ہیں۔
طخشت (س) طخشا: العین: آنکھ کا بے نور ہونا۔

طخطح: الشی: برابر کرنا۔ ایک کو دوسرے سے ملانا۔ اللیل: تاریک کرنا۔
تطخطح: اللیل: تاریک ہونا۔
السحاب: بادل گھر کر رہا ہونا۔
الطخطخ: گھر ہوا بادل۔ بد غلق۔
الطخاطخ: تاریکی۔

طخیم: (ف) طخما و طخیم (ک) طخامة۔ تکبر کرنا۔
إطخیم: اللحم: خشک ہو کر سیاہی مائل ہونا۔
الطخمة: بکریوں کا گلہ۔
الطخمة: ناک کے اگلے حصے کی سیاہی۔
اللاطم: جانور یا انسان کے ناک کا گلا حصہ۔

و الطخیم: خشک گوشت۔
طخا یطخو اظخو او طخو: اللیل: تاریک ہونا۔
الطخاء: بلند بادل۔ دل کی گہراہٹ۔
الطحیة و الطخیة و الطخیة: تاریکی۔ بادل کا ایک کلا۔ الطخیة: بیوقوف۔ ج طخیون۔
الطخواء و الطخیاء: من اللیالی: تاریک راتیں۔

الطراحیة: سخت تاریکی۔
ظرا (ن) ظراً: الماشیة: جانوروں کو زور سے ہانکنا۔ الإبل: اونٹوں کو اطراف سے گھیرنا۔ الشی: کانا۔ الثوب: کپڑے کو پھاڑنا۔ الإبل الجبال: اونٹوں کا پہاڑ کو طے کرنا۔
ظرة القوم: کسی قوم پر گزرتا۔ السبکین: چھری تیز کرنا۔ البنیان: کسی عمارت کی حرمت کرنا۔ الحوض: حوض کو لینا۔ المال: مال چھیننا اور اسی سے ہے ”ظرة عقله“ فلائی: طمانچہ مارنا۔ دھکارنا۔

ظرا (ن) ظراً و ظرواً: الشارب او التیاب: مونچھ یا نانات کا آنا۔ ظرت الشخوم:

ظرا (ن) ظراً و ظرواً: الشارب او التیاب: مونچھ یا نانات کا آنا۔ ظرت الشخوم:

ظرا (ن) ظراً و ظرواً: الشارب او التیاب: مونچھ یا نانات کا آنا۔ ظرت الشخوم:

کی تحریف ہو۔
الطحمة: مقلنة۔ من الناس: جماعت۔ من السیل: سیلاب کا زور۔ من اللیل: بہت تاریکی۔ (و الطخماء) ایک قسم کی سبزی۔
الطحمة: سخت جنگجو۔ بہت اونٹ۔
الطخوم: تیز ناکتے والا۔
المطخوم: بھرا ہوا۔

طحن (ف) طحنا و طحن: النور: گیوں پینا۔ المنیة القوم: ہلاک کرنا۔
طحنت الأفی: سانپ کا کندلی مارنا۔ صفت مطحان۔
تطحن: پینا۔

الطحن و الطحین: پیسا ہوا آٹا۔
الطاحنة: مؤنت طاحن۔ ڈاڑھ۔ ج طواجن۔
الطحان: پینے والا۔ آٹے کا پیننے والا۔
الطحانة: پیالی کا پشیر۔

الطاحون و الطاحونة: چکی پینے کا مکان۔ ج طواجن۔
الطحون و الطحانة: لڑائی۔ بڑا لشکر۔ بہت اونٹ۔

المطحنة: چکی۔ ج مطاحن۔
المطحنة: پینے کا مکان۔ ج مطاحن۔
طحا یطخو طخو: ا: بعد ہونا۔ ہلاک ہونا۔ الشی: دفع کرنا۔ بالکوة: بھینکنا۔
القوم: ایک دوسرے کو ہٹانا۔

طحا یطخا طخو: الشی: بھینانا۔ دراز کرنا۔ الشی: پھیلانا۔ دراز ہونا۔ القمور: روشن ہونا۔ الرجل: جانا۔ کہا جاتا ہے ”طحابہ ہمئة“ یعنی اس کی بہت اس کو ہر کام پر لے گئی۔ پلویر یطخا یفلان شخمة: ہونا ہوتا۔

الطحا: چوڑی زمین۔
الطاحی: بلند۔ پھلنے والا۔ بڑی جماعت۔ مظلة طاحیة و مظحوة و مظحیة: بڑا سائبان۔
بقلة مطحیة: زمین پر پھلنے والی سبزی۔
طخی یطخی طخیا: پلویر پلٹنا۔

کما جاتا ہے "حَمَامٌ طَرَانِي" یعنی وہ کو بیرون
معلوم کہاں سے آیا "كَلَامٌ طَرَانِي" جو کلام غیر
پسندیدہ اور ادب و تمدن سے گرا ہوا ہو۔

طَرَاةُ السَّنْبِيلِ: سیلاب کا زور۔
طَرَبٌ (س) طَرَبْنَا: خوشی یا غم سے جھومنا۔
صفت طَرِبٌ۔

طَرَبٌ: گانا _____ فِين صَوْتِهِ: سر نکالنا
_____ عَنِ الطَّرِيقِ: ہٹ جانا۔ طَرَبَهُ وَأَطْرَبَهُ
تَطْرِبَةً: خوشی پر برا بھلا کہنا۔

إِسْتَطْرَبَ: بست خوش ہونا _____ فَلَانَا:
خوش ہونے کو کہنا _____ الْإِبِلِ: حُدِي سے
حرکت میں لانا۔

الطَّرُوبُ وَالْمِطْرَابُ وَالْمِطْرَابَةُ: بست
زیادہ خوش۔

الْمِطْرَبُ وَالْمِطْرَبَةُ: تنگ راستہ۔ ج
مِطْرَابُ: المِطْرَابِ: متفرق راستہ۔

الْمِطْرَبَالُ: ہر بلند عمارت۔ دُور سے نظر آنے
والا جھنڈا۔ بڑی چٹان پہاڑ کی جو فضا میں ہوج
طَرَابِيلُ: طَرَابِيلُ الشَّامِ: تلک شام کے
گرے۔

الْمِطْرَبِيلُ: گاہنے کی مشین۔ ج طَرَابِيلُ۔

طَرَحٌ (ف) طَرَحَا الشَّمْسُ وَالشَّمْسُ: پھینک
دینا _____ عَنَهُ: ڈال دینا اور دُور کر دینا۔ کما جاتا

ہے "طَرَحَتِ التَّوْبَى بفلَانٍ كُلَّ مَطْرَحٍ" یعنی
فراق نے فلاں کو دُور ڈال دیا۔ طَرَحَ النُّوبُ
عَلَيْهِ: کسی چیز پر کڑا ڈالنا۔ طَرَحَتِ الْأَنْفَى:

حاصل گرا۔ طَرَحَ الْحَايِبُ: حساب کرنے
والے کا کسی بڑے عدد کو چھوڑنا _____ عَلَيْهِ
الْمَسْأَلَةُ: مسالہ پیش کرنا۔

طَرَحَ (س) طَرَحَا: بدخلق ہونا۔ خوش عیش
ہوتا۔

طَرَحَ: طرح کا مبالغہ۔ طَرَحَ بِهِ السَّفَرُ إِلَى
فَاجِيَةٍ كَذَا: سفر نے اس کو فلاں گوشہ میں
پھینک دیا۔ طَرَحَ الْأَنْفَى: حمل گروانا _____
الْبَيْتَاءُ: عمارت کو بست بلند کرنا۔

طَارَحَهُ مَطَارَحَةً: الْكَلَامُ أَوْ الشَّعْرُ أَوْ
الْعِنَاءُ: جھنگڑیا شعرا یا گانے میں مقابلہ کرنا۔

إِطْرَحَهُ: پھینک دینا۔ دُور کر دینا۔

تَطَارَحَ: الْقَوْمُ الْكَلَامَ أَوْ الْعِنَاءَ: ایک کا
دوسرے سے کلام یا گانے میں مقابلہ کرنا۔

الطَّرْحُ: ڈالنا ہوا۔ پھینکا ہوا۔ حمل نا تمام۔

الطَّرْحُ وَالطَّرْوُحُ وَالطَّرَاحُ: مکان بعید۔
الطَّرْوُحُ: کسی شاخوں والا درخت خرما ج
طَّرْوُحٌ۔

الطَّرْحَةُ: چادر ہزرنگ کی اور عوام کے نزدیک
بمعنی اور زہنی۔

الطَّرْيُحُ: ڈالنا ہوا۔ پھینکا ہوا ج طَّرْيُحِي۔

الطَّرْحُ: ڈالنا ہوا۔ پھینکا ہوا۔
الْأَطْرُوحَةُ: سوال جو تم کسی کے سامنے پیش
کرو۔

المَطْرُوحُ: ڈالنے کی جگہ۔ بچانے کی جگہ۔ ج
مَطْرَاحٌ: کما جاتا ہے "مَا طَرَحَكَ هَذَا

المَطْرُوحُ" یعنی تھیس اس میں کس نے ڈال دیا۔
طَرَفٌ وَمَطْرَحٌ: دُور تین نگاہ۔ زَمَحٌ وَمَطْرَحٌ لِمَا
نِيزه۔

المَطْرُوحُ مَعَهُ قَوْلٌ مَطْرُوحٌ: وہ قول جس کی
طرف توجہ نہ کی جائے۔

الطَّرْحَانُ وَالطَّرْحَانُ: رئیس۔ ج طَرْحَانَةٌ۔

الطَّرْحُونُ: ایک قسم کی نباتات ہے جس کا ریشہ
عاقراً قرار ہے۔

الطَّرْيُحُ: ایک قسم کی چھوٹی پھل۔

الطَّرْحَمُ: اللُّبْلُبُ: تاریک ہونا _____
الزَّوْجِلُ: نگاہ کمزور ہونا۔

طَرَدَهُ (ن) طَرَدَا وَطَرَدَا: دُور کرنا۔ علمدہ کرنا۔
دھکارنا _____ ه مِنْ بِلَادِهِ: جلا وطن کرنا۔ طَرَدَ
الْإِبِلُ: ادھر ادھر سے جمع کر کے ہانکنا۔

طَرَدَ (س) طَرَدَا: شکار کا پھینکا کرنا۔

طَرَدَ السَّوْطُ: أَثْمَانًا: طَرَدَهُ عَنِ الْبَلَدِ: جلا
وطن کرنا۔

طَارَدَ طَرَادًا وَمُطَارَدَةً: الْأَقْرَانُ: ایک کا
دوسرے کے اُپر حملہ کرنا۔ کما جاتا ہے "هُمَّ

فُؤْسَانُ الطَّرَادِ" وہ لوگ بدافعت کے شمسوار
ہیں۔

أَطْرَدَهُ: جلا وطن کرنے کا حکم دینا۔ جلا وطن کرنا۔
تَطَارَدَ: الْقَوْمُ: بعض کا بعض پر حملہ کرنا۔

إِنْطَرَدَ: جلا وطن ہونا۔

إِطْرَدَ: دُور ہونا _____ الْأَمْرُ: ایک دوسرے
کے پیچھے ہونا اور درست ہونا _____ الْإِنْهَازُ:
جاری ہونا _____ الْقَوْمُ إِلَى الْمَسِيرِ: پے
در پے چلنا۔

إِسْتَطْرَدَهُ: قَرِيبٌ دِينَ كَيْفَ تَكَلَّمَ كَوَظَاهِرِ
كِرْنَا: کلام کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے
دوسرا کلام لازم آجائے۔ إِسْتَطْرَدَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ:
پہنچنا۔

الطَّرْدُ: بھجور کے پودے۔ ج طَّرْدُودٌ۔

الطَّرْدُ: پانی۔ جس میں جانور گھٹتے ہوں۔
الطَّرَادُ: طَارَدَ كَالْمَالِدِ: تیز رفتار جنگی جہاز
کشاہہ مکان۔ لبادان۔

الطَّرِيدُ: دھکارا ہوا۔ بھاگنے والا جو تمہارے
بعد پیدا ہوا اور تم بھی اپنے بعد پیدا ہونے والے کا
طریقہ کلام کے _____ مِنْ الْأَيَّامِ لِبَادِنِ:
الطَّرِيدَانِ: رات دن۔

الطَّرِيدَةُ: بھگایا ہوا شکار۔ ریشم وغیرہ کا
مستطیل ٹکڑا۔ چرایا ہوا اُونٹ۔ تور وغیرہ کے
صاف کرنے کے لیے بھیجا ہوا جھیرا۔ ج طَّرِيدٌ۔

الطَّرَادُ: کما جاتا ہے "فَلَانٌ يَمْشِي مَشْيًا
طَرَادًا" یعنی فلاں سیدھی چال چلتا ہے۔ چھوٹا
تیز۔

المِطْرَدُ: چھوٹا تیز۔ ج مِطْرَادٌ۔

يَوْمٌ مَطْرَدٌ: لبادان۔
حُكْمٌ مَطْرَدٌ: عام حکم اور اسی سے ہے
"قَاعِدَةُ مَطْرَدَةٌ"

المِطْرَدَةُ وَالْمِطْرَدَةُ: وسط راستہ۔ شاہراہ
المِطْرَدَةُ: دھکارنے کا سبب۔

طَرَزٌ (س) طَرَزْنَا: بدخلق کے بعد اچھا اخلاق
ہونا _____ فِي الْمَلْبَسِ: لباسِ فاخرہ استعمال
کرنا۔

طَرَزَهُ (ن) طَرَزْنَا: گھونسا مارنے کا ہونا۔
طَرَزَ النُّوبُ: تپل بولنے کا ہونا۔

تَطَرَزَ: النُّوبُ: تپل بولنے والا ہونا۔ فہن
لُبْسِهِ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

الطَّرِيزُ: بیت۔ طریقہ۔ ترتیب۔

الطَّرِيزُ: کپڑے کا نقش و نگار۔ مقام جہاں
کپڑے اچھے بنے جائیں۔ طریقہ۔ کما جاتا ہے

الطَّارِفُ - فَا - نیامال اور اس کے مقابلہ میں ہے۔ التَّالِفُ: پرانمال۔

الطَّارِفَةُ - مَوْتٌ طَّارِفٌ - کہا جاتا ہے "بجائے بظارِفَةٌ عَیْنٌ" یعنی اتنا مال کبھی لیا کہ جو دیکھے اس کی آنکھ کو چکا چونہ لگ جائے ج طَّارِفٌ الطَّوَارِفُ: آنکھیں۔ کہا جاتا ہے "لَا تَرَاهُ الطَّوَارِفُ طَّوَارِفُ الْجَنَائِدِ": خیمہ کا وہ حصہ جو باہر نظر اڑانے کے لیے اٹھادیا جائے۔ طَّوَارِفُ الْقَرَائِحِ: طبعیت کے لطائف و عوارف۔

الظَّرِيفُ - نَادِرٌ مِوَهُ - نادر میوہ۔ مِنَ الْمَالِ: نیا حاصل کردہ مال اور اس کے مقابلہ میں ہے۔ التَّلِيفُ: پرانمال۔ الظَّرِيفُ: نئے مال والا۔ نئی شرافت والا۔ ج طَّرِيفٌ وَطَّرِيفٌ۔

الظَّرِيفَةُ - طَّرِيفٌ كَامُوْتٌ - نادر و مستحسن بات ج طَّرِيفٌ - کہا جاتا ہے "طَّرِيفٌ الْوَحْدِيَّةُ" پسندیدہ باتیں۔ "هَلْ وَرَاءَ كَ طَّرِيفَةُ حَبِيبٍ تَطَّرِيفًا بِهَا" یعنی کوئی خبر صدید ہے جو تم ہمارے سامنے پیش کرو۔ الْأَطَّرِيفَةُ: نئی عمدہ نادر بات۔

الطَّرِيفُ - حِزْبٌ كَاخِيْمَةٍ - اتنا حصہ کھینچ کا جو اطراف سے کاٹ لیا جائے۔ ج طَّرِيفٌ - شرافت و بزرگی۔

المُظَرِفُ - مِنَ الْمَالِ: نِیَامَالِ حَاصِلِ كَرْنِ وَالَا۔

المُظَرِفُ وَالمُظَرِفُ - نَقْشٌ وَنِگارِ دَالِ رِیْمٌ كِی حَاجِرِ مِظَارِفٌ۔

طَّرِيفٌ - نَظْرٌ تَبَيَّرٌ كَرَمٌ كَامُوْرِنَا - سب سے کپڑے پہننا۔

الْمِئَلُ: رَاتٌ كَا تَارِيكٌ هُوْنَا الْمُوَزِدُ كَمَاتٌ كَاكَدَلَا هُوْنَا الْمَاءُ: پانی پر آنے جانے والوں کا زیادہ ہونا۔

الطَّرِيفُ سَانَ: تَارِيكِي - مِچھوٹا۔ عَالِيَجِي - الطَّرِيفُ سَاءَ: تَارِيكِي۔

طَّرِيفَةُ (ن): طَّرِيفًا - تَبَهَوْرًا مَارِنَا النَّجَارُ الصُّوفُ: أَوْنَ وَحَسْنَا الشَّيْءُ: بِنَا

الْإِبِلُ الْمَاءُ: أَوْنُوْنَ كَابَانِي مِیْنُ حَسْنَا: الرَّجُلُ: جَادُوْمَنْتَرَ كَطُوْرٍ كَنْكَرِي مِچھیکار۔ طَّرِيفًا وَطَّرِيفًا: الْقَوْمُ: رَاتٌ كَا وَتِ كَا

طَّرِيفٌ (ك) طَّرِيفَةٌ: نِیَامَالِ هُوْنَا۔ طَّرِيفَةٌ: اِيكٌ كُوْشٌ مِیْنُ كَرْمَا - آنکھ میں کچھ پڑ جانا۔

طَّرِيفُ النِّعْبَلِ: كُوْزُوْنَ كِی اَنْكَلِي قَطَارٌ كُوِچِیجِي كَرْمَا - بِنَانَه: پورے کو مندی سے رنگنا۔

الشَّيْءُ: پَسْنَدُ كَرْمَا۔ اَطَّرِيفٌ: نَبِيْ عَمْدَه جِزَلَانَا - پلکوں کو بند کرنا۔ كَمَّذَا بِكَمَّذَا: بِلَا حَقِّ كَرْمَا۔ هَا الشَّيْءُ: تَحْفَرُ رَمَا۔

تَطَّرِيفٌ: اِيكٌ كَنَارَه مِیْنُ هُوْنَا الشَّيْءُ: كَنَارَه پَر هُوْنَا۔ حَدِ اَعْتِمَالِ سَهْ جَانَا۔ الشَّمْسُ: اَلْقَابُ كَا غُرُوبِ كَا قَرِيبٌ هُوْنَا

الشَّيْءُ: اَطْرَافٌ سَهْ لِيْمَا۔ پَسْنَدُ كَرْمَا۔ عَلَيْهِمْ: عَارَتٌ وَانَا۔

اَطَّرِيفُ الشَّيْءُ: نَبِيْ جِزْرِ خَرِيْدَانَا۔ اِمْنُظَّرِفَةٌ: نِيَا كَمَّهْمَا الشَّيْءُ: نِيَا پَانَا۔

فَاكَدَه لِيْمَا۔ پَسْنَدُ كَرْمَا۔ الطَّرِيفُ - آنکھ۔ كَسِيْ جِزْرٌ كَا كَنَارَه - ہر شے کا کھینچنا۔

ج - اَطَّرِيفُ - الطَّرِيفُ: شَرِيفٌ - کہا جاتا ہے "نَظْرٌ بَطَّرِيفٌ حَقِيقِي" یعنی خوف یا حیا کی وجہ سے نیم ہار آنکھوں سے دیکھا۔

الطَّرِيفُ - نَجِيبٌ الظَّرِيفُ - اَحْمِلُ (گھوڑا وغیرہ) ج طَّرِيفٌ وَ اَطَّرِيفٌ مَوْتٌ طَّرِيفَةٌ۔ نِیَامَالِ - مِنَ النِّبَاتِ: جَوَابِی اِسْنَهْ عِلَافٌ كَمُفُوْجِ مِیْنُ

ہی ہُو۔ مِنَ النَّاسِ: جَوْبُوْجٌ طَالِ طَبِيعِ كَسِي كَا سَاتَه مَعَارَشَرْتٌ پَر قَائِمٌ نَدَرَه۔ اِیسا حریص نگاہ کا کہ جس چیز کو دیکھے اس کے متعلق خواہش کرے کہ وہ اس کے پاس ہو۔ رَجُلٌ طَّرِيفٌ مِیْنُ نَسَبِه: نَبِيْ شَرِافَتِ وَالَا۔ اِمْرَاَةٌ طَّرِيفٌ الْحَدِيْثِ: خُوْشِ كَلَامِ عُوْرَتِ۔

الطَّرِيفُ - ہر شے کا کھینچنا۔ گوشہ۔ جِزْرٌ كَا كَمُفُوْجِ۔ شَرِيفٌ - ج اَطَّرِيفُ ج اَطَّرِيفُ۔ اَطَّرِيفٌ الْبِئْدَانِ: دُوْنُوْنَ ہَاتھ دُوْنُوْں پیر اور سر۔ اَطَّرِيفٌ النَّاسِ: اِرْبِيْ حَسْمِ كَا لُوْگ۔ شَرَفَاءُ اُوْر خَالِدَانَا

شَرَفَاءُ: اَطَّرِيفُ الرَّجُلِ: اِقْرَبَاءُ۔ الطَّرِيفُ - فِیْرِمَسْتَلٌ - جَو كَسِي سَاتِحِي كِی حَمِيْتِ پَر قَائِمٌ نَدَرَه۔ نَبِيْ شَرِافَتِ وَالَا۔

الطَّرِيفَةُ: خُوْنٌ كَا قَطْطٌ جَو اَنْكَمِ مِیْنُ هُو جَا تَا ہ۔ الطَّرِيفَةُ: لِيْعُ بَاتِ۔ نَبِيْ عَمْدَه جِزْرِ ج طَّرِيفٌ۔ الطَّرِيفَاءُ: جَمَاوُ كَا رُخْتِ۔

"هَذَا عَلِيٌّ طَوَارِيفٌ" یعنی یہ اس کے طریقہ پر ہے۔ لَيْسَ هَذَا مِیْنُ طَوَارِيفِ ذَاكَ" یعنی یہ تمہارے

طُوْرٍ طَرِيقَةٍ پَر نِیْسِ۔ ج طَّرِيفٌ۔ الطَّرِيفَةُ: تَبَلٌ بُوْنَهْ بِنَانَهْ كَا پِیْشِ۔

الطَّرِيفُ هُوَ الْمَطَّرِيفُ: تَبَلٌ بُوْنَهْ بِنَانَهْ وَالَا۔ طَّرِيفٌ (ض) طَّرِيفًا: الشَّيْءُ: مَنَا۔ الْكِتَابُ: كَمَّسَا۔

طَّرِيفٌ: الْكِتَابُ: اِحْتِجِي طَرِحَ مَنَا۔ الْبَابُ: دَرُوْازَه كَالَا كَرْمَا۔ الْكَاتِبُ: كَمَّهْ

هُوَ پَر كَمَّسَا۔ طَّرِيفَةٌ: فَاَسَدُ كَرْمَا۔ بَاغَرْمَا۔ تَطَّرِيفٌ لِيْنِ الْمَآكِلِ: عَمْدَه كَمَّانَهْ كَمَّانَا۔ عِنَ الشَّيْءِ: پَر پِیْزِ كَرْمَا۔

الطَّرِيفُ - مِچھوٹا۔ مِچھوٹا کہ جس کو منا کر پھر کھیا جائے۔ ج اَطَّرِيفٌ وَطَّرِيفٌ۔ طَّرِيفٌ (س) طَّرِيفًا: بَسْرًا هُوْنَا۔ صَفْتٌ اَطَّرِيفٌ مَوْتٌ طَّرِيفًا ج طَّرِيفٌ۔

تَطَّرِيفٌ - بِلَافِ بَرَابِنَا۔ الطَّرِيفُ وَ الطَّرِيفَةُ: بَسْرًا مِیْنُ الْأَطَّرِيفُ وَ الْأَطَّرِيفُ: بَسْرًا۔ طَّرِيفٌ مِیْنُ اللَّيْلِ: تَارِيكٌ هُوْنَا۔

طَّرِيفٌ (س) طَّرِيفًا: يُوْقِفُ هُوْنَا۔ صَفْتٌ طَّرِيفًا: اَبْرُوْوْنَ پَر كَمِ بَالِ هُوْنَا۔ صَفْتٌ طَّرِيفًا۔

طَّرِيفًا: الْحَاجَجِيْنِ وَ طَّرِيفًا مَنَا وَ اَطَّرِيفًا مَنَا وَ اَطَّرِيفًا: مَوْتٌ طَّرِيفًا۔ اِمْرَاَةٌ طَّرِيفًا: عَمْدَتِيْنِ جَسِ كِی پلکوں پر کمر ہال ہوں۔

طَّرِيفٌ - مِچھوٹا گھارنا۔ ڈنک مارنا۔ فُحْرُ كَرْمَا۔ طَّرِيفٌ: لِبَا پَتَلَا مَرْدِ۔ لِبِي نو كَدَارِ نُؤْبِي اُوْر

طَّرِيفٌ اَبِلِ لِبَنَانِ وَ شَامِ كَا نَزِيْدِي عُوْرَتُوْنَ كَا زِيُوْرَاتِ مِیْنُ سَهْ اِيكٌ زِيُوْرَهْ جَسِ كُو سِرِبِ اسْتِمَالِ كِيَا جَا تَا ہ۔ اُوْر بَسَاوَاتِ اسَهْ طَّرِيفٌ مَنَا جَسِي كَتَهْ ہوں۔

طَّرِيفَةُ (ض) طَّرِيفًا: طَرِيْحًا مَارِنَا۔ طَّرِيفَةُ عَيْنُهُ: وَ اَبَسِ كَرْمَا۔ بَا زَر كَمَّانَا۔ طَّرِيفٌ بَصْرُهُ أَوْ بَعِيْنُهُ: جَمِيْكَانَا۔ عَيْنُهُ: آنکھ میں کوئی چیز لگانا جس سے پانی لگے اور بند ہو جائے۔ صَفْتٌ مَطَّرِيفَةٌ: طَّرِيفٌ عَيْنُهُ: نَظْرٌ پھرانا۔ فَلَانٌ: دِيْكِنَا۔ كَمَا جَا تَا

ہے "مَا قَبِيْتُ مِنْهُمُ عَيْنٌ تَطَّرِيفٌ" یعنی ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا سب مر گئے یا قتل کئے گئے۔

الطَّرْمَةُ - بجر۔
الطَّرْمَةُ وَالطَّرْمَةُ وَالطَّرْمَةُ - اوپر کے ہونٹ کا کڑھا۔
الطَّرْمَةُ - دائروں کی زردی۔ دائروں کے درمیان کا بقیہ کھانا۔ منہ کے اوپر خشک تھوک۔
الطَّرِيمُ - غصہ۔
الطَّرْمُوتُ - بھول کی کچی ہوئی روٹی۔
طَّرْمَخُ - البناءُ - لمبی ہانا۔
الطَّرِمَاحُ وَالطَّرِمَاحُ وَالطَّرْمُوحُ - لمبا۔
الطَّرِمَاحُ - مشہور۔ عالی نسب۔ خوش میں۔
طَّرْمَذٌ - بیکار ڈیک مارنا۔ جھوٹا نخر کرنا۔ صفت طَّرْمَاذُو طَّرْمَازَانُ۔
طَّرْمَسٌ - گھبراہٹ سے خاموش رہنا۔ کمروہ جانا۔ بھگانا۔ _____ الْوَجْهَ : ترش رو ہونا۔
الکَاتِبُ الْکِتَابَةِ : مٹانا (_____)
وَاطْرَمَسَ اللَّيْلُ : تارک ہونا۔
الطَّرِمَاسُ وَالطَّرِمَسُ وَالطَّرِمَسَاءُ - سخت تارکی۔
الطَّرْمُوسُ وَالطَّرْمُوسَةُ - بھول کی کچی ہوئی روٹی۔
الطَّرْمُوقُ - جگاڑ۔
طَّرْوٌ وَطَّرْوٌ وَطَّرِيٌّ وَطَّرِيٌّ طَّرَاوَةٌ وَطَّرَاةٌ وَطَّرَاوَةٌ وَطَّرَاءَةٌ - الغُصْنُ أَوْ النَّحْمُ : شنی یا گوشت کا تازہ نرم ہونا۔ صفت طَّرِيٌّ۔
طَّرْوٌ وَطَّرْوٌ وَطَّرْوٌ أَعْلَيْهِمْ : دُور سے آنا۔
طَّرْوِيٌّ - الشَّقِيُّ : ترو تازہ کرنا۔ _____ الطَّيِّبُ : خوشبوؤں کو مخلوط کرنا۔ _____ الطَّعَامُ : کھانے میں سالہ ملانا۔
أَطَّرَى اطَّرَاءً فَلَانَا : تعریف میں مبالغہ کرنا۔
اطَّرُوذِيٌّ - حمد ہونا اور بیٹھ پھولنا۔
الطَّرَا - جو کچھ زمین میں غیر جنس زمین سے ہو۔
لا تُعَدُّ اَوْ تَحْلُقُ -
الطَّرِيٌّ - نرم تازہ۔
الاطَّرِيَّةُ - سویاں۔
الاطَّرَوَانُ مِنَ الشَّبَابِ - ابتدائے شباب۔
عُتْرَانُ الشَّبَابِ -
طَّرِيٌّ (س) طَّرِيٌّ - إِلَيْهِ : متوجہ ہونا۔
طَّرْوَةٌ (ن) اطَّرُوذِيٌّ - گھونسا مار کے ہٹانا۔

پائی جمع ہونے کے مواضع۔ اُونٹوں کے پیر کے نشانات۔ اطَّرَوِيُّ النَّظْمِ - بیت کی سلوٹ۔
الطَّرْمَةُ - طَّرْمُوقٌ كَالاسْمِ نَوْعٌ - طَّرْمُوقٌ - طَّرْمُوقٌ - طَّرْمُوقٌ - راستہ۔ طَّرْمُوقٌ - عادت۔ لالچ۔ بدبہ پتھر۔
طَّرْمُوقٌ -
الطَّرْمُوقُ - جوتے کا چمڑا۔ لوبا کہ جس کو چوڑا کر کے ڈھال وغیرہ پر منڈھیں۔ جوتے کے چمڑے کا کٹورا جس سے جوتا کا ٹھیس۔ ج طَّرْمُوقٌ۔
الطَّرْمُوقُ - راستہ (مذکر مؤنث) ج طَّرْمُوقٌ اطَّرَمٌ وَأَطَّرَمَةٌ وَأَطَّرَمَةٌ وَج طَّرْمُوقَاتٌ۔
الطَّرْمُوقَةُ - عادت۔ حالت۔ مذہب۔ دھاری۔ کپڑے کا مستطیل کٹورا۔ لمبا کھجور کا درخت۔ نیچے کا ستون۔ ساتباں کا ستون۔ قوم کا شریف اور افضل۔ واحد اور جمع دونوں میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ طَّرْمُوقَةٌ قَوْمِهِ وَهُمُ طَّرْمُوقَةٌ قَوْمِهِمْ"۔
يَا وَهُمُ طَّرْمُوقَاتُ قَوْمِهِمْ ج طَّرْمُوقَاتُ - ثَبُوتُ طَّرْمُوقَاتُ پُرَانًا كَبُرَ اطَّرَمْتُ الدَّهْرُ : حوادثِ دہر۔
الطَّرْمُوقُ - فا۔ رات کو آنے والا۔ ج طَّرْمُوقٌ وَ اطَّرَمَةٌ - ج کا ستارہ۔
الطَّرْمُوقَةُ - طَارِقٌ كَالْمَوْثِ - مصیبت۔ قبیلہ مرد۔
جھوٹا تخت۔ ج طَّرْمُوقٌ وَ طَّرْمُوقَاتٌ۔
الطَّرْمُوقِيُّ - مؤنث طَّرْمُوقِيَّةٌ - المَطَّرْمُوقِيُّ - ج مَطَّرْمُوقِيٌّ - بہت سر جھکانے والا۔
المَطَّرْمُوقُ وَ المَطَّرْمُوقَةُ - روٹی، اُون ڈھننے کا ڈنڈا۔ جھوٹا۔ ج مَطَّرْمُوقِيٌّ۔
المَطَّرْمُوقِيُّ - طَّرْمُوقُ - ج مَطَّرْمُوقِيٌّ - المَطَّرْمُوقِيُّ : جھیل پین ہو۔ وہ شخص جس میں جنون اور یوقونی ہو۔ ماءً مَطَّرْمُوقِيٌّ : وہ پائی جس میں اُونٹ بیٹھی و پیشاب کریں۔
المَطَّرْمُوقِيُّ - نظیر ج مَطَّرْمُوقِيٌّ - المَطَّرْمُوقِيُّ : پیدل چلنے والے لوگ۔ اُونٹوں کی قطار۔
طَّرْمٌ (س) طَّرْمًا - بَيْتُ النَّحْلِ : شہد سے بھرنا۔
طَّرْمًا (ع) طَّرْمًا - جھپٹے سے شہد بہنا۔
اطَّرَمْتُ - اَسْتَأْنَأُهُ : دائروں پر میل جانا۔ اطَّرَمْتُ فُؤَاهُ : شہد کا بزمہ یا پد یاد رہا ہونا۔
طَّرْمٌ لِي مِنَ الْكَلَامِ : کلام کرنے میں رک جانا۔
الطَّرْمُ وَ الطَّرْمُ وَ الطَّرْمُ - شہد۔ الطَّرْمُ - بدبہ بادل۔ زَجَلٌ طَّرْمِيٌّ - مرد دراز قدم۔

طَّرْمُوقٌ (س) طَّرْمُوقًا - گدلا پائی پینا۔ _____ طَّرْمُوقًا الْبَيْعِيُّ : اُونٹ کے گھٹنے میں کمزوری یا اس کی پٹلی میں کچی ہونا۔ صفت اطَّرَمٌ - مؤنث طَّرْمُوقَاءُ ج طَّرْمُوقِيٌّ۔
طَّرْمُوقَةٌ لَهٗ : راستہ بنانا۔ _____ الْمَوْضِعُ : راستہ اختیار کر لینا۔ کہا جاتا ہے "لَا تُطَّرْمُوقُوا الْمَسَاجِدَ" یعنی مسجدوں کو راستہ مت بناؤ۔ "طَّرْمُوقٌ طَّرْمُوقَةٌ حَسَنَةٌ" اچھا طریقہ گھر لینا۔
الْحَدِيدُ : لوہے کو کوننا اور پھیلانا۔
طَّرْمُوقَتِ الْحَامِلِ يَوْلِدُهَا : بچے کو مشکل سے جانا۔ الْقَطَاةُ : اِنڈے دینے کا وقت قریب ہونا۔
کہا جاتا ہے "طَّرْمُوقٌ بِحَقِي" یعنی میرے حق کا انکار کیا پھر اقرار کر لیا۔
طَّرْمُوقٌ - بَيْنَ النَّوْمَيْنِ : اُوپر نیچے پیننا۔ الطَّرْمَامُ أَوْ الْعَمَامُ : تارکی یا بادل کا پاپے آنا۔
اطَّرَمْتُ - خاموش ہونا۔ نگاہ جھکا کر زمین کی طرف دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "اطَّرَمْتُ زَائِسَةً" یعنی سر جھکایا۔ _____ إِلَى اللَّهِ : مائل ہونا۔
الصَّيْدُ : جال لگانا۔ اطَّرَمْتُ الْإِبِلَ : ایک دوسرے کے پیچھے چلنا۔ الزَّجَلُ : پیدل چلنا۔ نکاح کرنا۔
طَّرْمُوقِيٌّ - إِلَيْهِ : چلنا یہاں تک کہ پہنچنا۔ إِلَى الْأَمْرِ : راستہ تلاش کرنا۔
اطَّرَمْتُ الْإِبِلَ : بعض کا بعض کے پیچھے چلنا۔
مَتَرَقٌ ہونا اور سیدھے راستہ کو چھوڑ دینا۔ اطَّرَمْتُ جَنَاحَ الطَّيْرِ : پرندے کے بازوؤں کا ایک پر ایک جہر جانا۔ الشَّرَابُ : شنی کا بدبہ ہونا۔
طَّرْمُوقِيٌّ الشَّقِيُّ : بے درپے ہونا۔ طَّرْمُوقَاتُ الْإِبِلِ : بعض کا بعض کے پیچھے ہونا۔
اسْتَطَّرْمُوقِيٌّ - الشَّقِيُّ : راستہ بنانا۔ _____ بَيْنَ الصُّفُوفِ : صفوں کے درمیان چلنا۔ _____ : سکری پھینکنے کو کہنا۔
الطَّرْمُوقُ وَالطَّرْمُوقُ وَالطَّرْمُوقَةُ - مرتبہ۔ وفد کہا جاتا ہے "أَيْتَنَّهُ طَّرْمُوقَيْنِ" یعنی میں اس کے پاس دو مرتبہ آیا۔
الطَّرْمُوقُ وَالطَّرْمُوقُ - پھندا۔ جال۔ ج اطَّرَمْتُ وَالطَّرْمُوقَةُ - پھندا۔ جال۔ ج طَّرْمُوقِيٌّ۔
الطَّرْمُوقُ - مٹک کی سلوٹ۔ ج اطَّرَمْتُ۔

طسۃ (ن) طسۃ۔ غالب آنا اور خاموش کرنا
 ۱۔ فی الماء: غوطرنا۔ طس القوم: بصر
 میں دور تک چلا جانا۔ کہا جاتا ہے "ما أذرى أين
 طس" میں نہیں جانتا کہاں گیا۔
 طسس۔ جانا۔ فی البلاد: سفر کرنا۔
 الطس۔ ہاتھ دھونے کیلئے تانبے کا برتن۔
 سخی۔ ج اطمس وطمس وطمس وطمس۔
 الطسۃ و الطسۃ۔ ہاتھ دھونے کیلئے تانبے کا
 برتن۔ سخی۔ ج طسات و طسات و طسات
 و طسات۔
 الطسۃ۔ برتن مذکور کو بنانے والا۔ یا بیچنے
 والا۔
 الطساسة۔ برتن مذکور بنانے کا پیشہ۔
 طسناً (ف) طسناً و طسناً (س) طسناً تخم
 ہوتا۔ صفت طسائی طسینی۔ طسائینہ: شرم
 کرتا۔
 اطمسۃ۔ بد بھسی کرتا۔
 الطسۃ۔ تخم۔ بیضہ۔
 الطسۃ۔ ہاتھ دھونے کا تانبے کا برتن ج
 طسوت۔
 طسغ (ف) طسغاً فی البلاد۔ جانا۔
 طسغ (س) طسغاً۔ بے غیرت اور مفلس
 ہونا۔ صفت طسغ و طسغ۔
 طسغ (ن) طسغاً۔ الشی: مٹانا۔
 طسغ (ش) طسغوماً۔ مٹا۔
 طسغ (س) طسغاً۔ بیضہ ہونا۔ تخم ہونا۔
 الطسغ۔ تاریکی۔ تیرگی۔ گرد آلودگی۔
 طسغ او اطمساً من سحاب: تھوڑے
 سے بادل۔
 الطسغام و الطسغام و الطسغام۔ من الغبار:
 بہت زیادہ غبار۔
 طسنت (ن) طسنتاً و اطمسنت السماء:
 چھو بار بار سنا۔
 طسنت۔ الزجل: زکام جیسی بیماری لاحق ہونا۔
 الطساش و الطسۃ۔ زکام جیسی ایک بیماری کا
 نام۔
 الطساش۔ کمزوری نگاہ۔
 الطسۃ۔ چھوٹا بیڑہ۔

طعم (ش) طعماً و طعماً۔ الشی: چکھنا
 ۱۔ علیہ: قادر ہونا۔
 طعم (س) طعماً و طعماً الطعم: کھانا
 ۱۔ طعماً الغضن: ایک درخت کی نشی کا
 دوسرے درخت کی نشی میں ٹکس جانا۔
 طعم (ف) طعماً آسودہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "ما
 یطعم اکل هذا" یعنی اس کا کھانے والا آسودہ
 نہیں ہوتا۔
 طعم الغضن: نشی کو دوسرے درخت کی نشی
 سے بیوند لگانا اور عرف اطباء و عوام میں بیکہ لگانے
 کے معنی میں مستعمل ہے۔ "طعم العظم"
 گوڈے دار ہونا۔
 اطمع۔ الغضن: بیوند لگانا۔ ۱۔ کھانا
 کھانا۔ خوراک دینا۔ الشجور: پھل دینا
 پھل پکنا۔ الشی: مزے دار ہونا یا مزے کا
 بدل جانا۔
 طاعم و تطاعم۔ الحمام: مادہ کی چوچ میں
 چوچ ڈالنا۔ طاعمۃ: ساتھ کھانا۔
 تطعم۔ الشی: چکھنا۔
 اطمع۔ مزیدار ہونا۔ اطمعت الشجرة: پھل
 کا پکنا اور عمدہ ہونا۔ عرب بولتے ہیں "هو لا
 یطعم" یعنی نہ تو وہ ادب دیکھتا ہے اور نہ ایسی چیز
 حاصل کرتا ہے جو اسے درست کر دے۔
 استظعم۔ مزہ پانا۔ ۱۔ کھانا لگانا۔
 الطعام: مزہ معلوم کرنے کے لیے چکھنا۔ کہا جاتا
 ہے "استظعمہ الحدیث" یعنی اس نے بات
 کہنے کے لیے کہا۔
 الطعم۔ مزہ ج طعموم۔ کھانے کی خواہش۔ کہا
 جاتا ہے "زجل ذو طعم" یعنی صاحب عقل و
 تجربہ ہے۔
 الطعم۔ کھانا۔ قدرت۔ کہا جاتا ہے "هذا طعام
 طعم" یعنی ایک عرصے کو سیر کرنے والا ہے۔ دانے
 جو شکار کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔
 الطعمۃ۔ کھانے کا طریقہ۔ کب و کمانی کا ذریعہ۔
 الطعمۃ۔ خوراک۔ کھانے کی دعوت۔ رزق۔
 کب و کمانی کا ذریعہ۔ کہا جاتا ہے "جعلت
 ضیعی طعمۃ لفلان" یعنی میں نے فلاں کو اپنی
 جائیداد زراعت کے لیے عاریت پر دے دی ج

طعم۔
 الطعام۔ خوراک ج اطمعۃ ج اطمعات۔
 گیوں۔
 الطعم و الطاعم۔ خوش خوراک۔ کہا جاتا ہے
 "انا طاعم عن طعامکم" یعنی میں تمہارے
 کھانے سے مستحق ہوں۔
 جزو طعموم و طعمین۔ ذبح کرنے کے اذنت
 نہ ڈبے نہ موئے۔ الطعمۃ: بکری جو کھانے
 کیلئے روک لی گئی ہو۔
 الطعمی۔ کھانا بیچنے والا۔
 المظعم۔ کھانے کی جگہ۔ خوراک۔ ج
 مظاعم۔
 المظعم۔ زیادہ کھانے والا۔
 المظعم۔ ممان نواز۔
 المظعم۔ مفر۔ رزق دیا ہوا۔
 المظعموم۔ مفر۔ خوراک۔ جو چکھا جائے۔
 بیوند۔ بیکہ۔
 طعمۃ (ف) طعمۃ۔ نیزہ مارنا اور چھوٹا
 ۱۔ فی المفازۃ: جانا۔ ۱۔ فی المسین:
 بوڑھا ہونا۔ الفرس فی العنان: لگام کھینچ
 کر تیز چلانا۔ طعمنا و طعمنا: فی الزجل و
 علیہ: سب لگانا۔ طعمۃ: مارنا۔ اللیل:
 ساری رات چلنا۔
 طعم الزجل: طاعون زدہ ہونا۔
 تطاعن القوم تطاعنا و طعمنا و اطمعنا۔
 ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔
 الطعمۃ۔ نیزے کی ضرب۔ نیزے کی ضرب کا
 نشان۔ ج طعن و طعنات۔
 الطاعون۔ پلک۔ وبا کی موت۔ ج طوعین۔
 الطعان و المظعن و المظعان۔ بہت نیزہ
 مارنے والا ج مظاعین و مظاعین اور اسی سے
 ہے "هو طعان" یعنی اغراض الناس" یعنی وہ
 لوگوں کی آرزو بہت زیادہ طعن کرنے والا ہے۔
 الطعین۔ نیزہ زدہ۔ پلک زدہ۔ ج طعن۔
 الطعین۔ جنگ میں نیزہ مارنے میں ماہر۔
 المظنۃ۔ نیزہ بازی۔
 طعۃ (ف) طعۃ۔ دفع کرنا۔ مٹانا۔
 الطعۃ و الطعۃ۔ شاہی فرامین اور سکون

اور برہ پڑنا ————— الإناء: بھرنے (لازم و
تعدی) السکران: شراب سے پڑھنا
المزاة بالولد: پورے دلوں پر بچہ جانا
اور کہا جاتا ہے "أطفح عینی" یعنی جاڑ۔
أطفح وأطفح الإناء: بھرنے تک کہ برہ
پڑے۔
أطفح القدر: جھاگ نکالنا۔
الطفاح: پڑی۔
الطفاحة: ہانڈی کے جھاگ۔
الطفحان: لہریز جو برہ پڑے۔ مؤنث
طفحی۔
الطفاحة: مؤنث طافح: خشک۔
فوس طفاخ: القوائم: بہت تیز دوڑنے والا
گھوڑا۔
المطفحة: کثیر۔
طفح (ض) طفاخ: طفاخ: المیت: دفن کرنا۔
الطفح والطفح: جرح اطفاح۔
طفح (ض) طفاخ: طفاخ: کودنا۔ اونچائی میں
کودنا۔
طفح: اللبن: بالائی والا ہونا (ا و اطفح)
الفرس الطفق: گھوڑے کو نسر کے ایک جانب
سے دو سری جانب کودنا۔
الطفحة: اونچائی کی کودائی ————— من اللبن
: بالائی۔
طفح (س) طفاخ: طفاخ: گندا ہونا۔
صفت طفح۔
طفح (ن) طفاخ: طفاخ: جھڑنا۔
طفح طفاخ: دشمن کے ہاتھوں میں
ڈھیلا ہونا۔
الطفحة والطفحة: کرا ڈھیلا گوشت۔ ج
طفح۔
الطفح: جانب۔ دریا کا کنارہ۔ و رخت کی تر
وتازہ نرم شامیں۔
طفح (س) و طفق (ض) طفاخ و طفاخ:
یفعل کذا: شروع کرنا۔ طفق: موضع: لازم
ہونا۔ طفق: پھراؤ: کامیاب ہونا۔
أطفح: پھراؤ: کامیاب کرنا۔
طفح (ک) طفاخ و طفاخ: نرم دنا پروردہ

الحایط: دیوار پر چڑھنا۔ طفحہ: چڑھنا۔
یدہ: پیر سے یا ہاتھ سے اٹھانا۔
طفح: المکیان: کم تاپنا ————— الطائر:
پرنہ کا بازو پھیلاتا ————— علی عیالہ: بال بچوں
پر بھل کرنا۔ طفح الشمس: آفتاب کا غروب
کے قریب ہونا ————— بہ موضع کذا: قریب
کرنا۔
أطفح علیہ: جھاگنا ————— الکتیل: بھرا
لہ: قریب دینے کا ارادہ کرنا —————
علیہ: مشتمل ہونا ————— علیہ بحجر: چھینکنے
کے لیے اٹھانا ————— لہ السیف: تلوار کو جھکانا۔
استطفح علیہ: جھاگنا۔ استطفحت
الحاجة: حاجت کا پورا ہونا۔
الطفح: بلند زمین۔ کنارہ۔ جانب۔ صحن۔ مکان۔
پہاڑ کا پہلو۔ ج طفاخ: ا ————— والطفح
والطفح والطفح والطفح: من الإناء:
برتن کا کنارہ۔ کنارے تک بھرا ہوا۔ الطفاف
والطفح: رات کی تاریکی۔ طفاف الشمس:
آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "أتانا
عند طفاف الشمس" غروب آفتاب کے
قریب ہمارے پاس آیا۔
الطفح: کم۔ کامل۔ حیرت خیز۔
الطفح: باغ کا گردا گرد۔ قطعہ زمین جو پہاڑوں
اور میدان کے درمیان ہو۔
الطفح والطفح: من الخیل: ہکا پھکا تیز
رفتار گھوڑا۔
إناء طفاخ: لبالب برتن۔
طفح (س) طفاخ: النار: آگ کا بجھنا
عینہ: آگ کا بے نور ہونا۔
أطفح: النار: آگ کا بجھنا۔ کہا جاتا ہے "أطفحاً
الفتنة والحوب یعنی تندہ یا لڑائی کو فرو کرنا۔
إنطفاآت أطفح: النار: آگ کا بجھنا۔
المطفح: نا۔ مطفح: الجمر: ایامِ حج کا چوتھا
یا پانچواں دن۔ مطفح: الرضف: مصیبت۔
مطفح: الرضف: چربی کہ جو گرم پتھر پڑے تو
پھیل جانے اور اس کی گرمی کو دور کر دے۔
المطفح: آگ بجھانے کا آلہ۔ ج مطفحی۔
طفح (ف) طفاخ و طفاخ: الإناء: بھرنے

کی علامت۔ ج طفاخات و طفاخیات۔
الطفح: طفرانے والا۔
تطفح علیہ: جاہل بنا۔
طفحة: جماعت جن کا معاملہ ایک ہو۔ ج
طفحات و طفح۔
الطفح: سمندر۔ بہت پانی۔
الطفح: کینے لوگ (واحد و جمع) معمول۔
پرنہ۔ واحد طفاخ۔ الطفاخ: بیوقوف۔
الطفحة والطفح: بیوقوفی۔ کینہ۔
طفح الرجل: کمزور نظر ہونا۔
الیہ: کمزور نظر سے دیکھنا۔ صفت مطفح۔
الطفحة: ضعف بصر۔
طفاخ و طفاخ و طفاخ و طفاخ: حد سے بڑھ
جانا ————— البخح: سمندر کا جوش مارنا۔
الستیل: سیلاب کا چڑھنا۔
تطفاخ: الموح: موجوں کا جوش مارنا۔
أطفح و طفاخ: سرکش پیرا گینت کرنا۔
أطفح الماء ونحوہ: سرکش بنانا۔
الطفح: بلند جگہ۔ ج طفاخات۔
الطفح: سرکش۔
الطفاخ: ہر حد سے تجاوز کرنے والا۔ بدی و
شرارت کا سرغنہ۔ شیطان۔ معبود باطل۔ ج
طفاخ و طفاخ: الطفاخ و الطفاخ:
بیت خانے۔
طفح و طفح: طفح و طفح و طفح و طفح:
بمعنی طفاخ و طفح: کفر میں غلو کرنا
الرجل: ظلم اور گناہوں میں حد سے بڑھ
جانا ————— الماء: بلند ہونا۔
طفح و طفح: فلان: سرکش پیرا گینت کرنا۔
سرکش بنانا۔
الطفح: اسم مرہ۔ سرکش گھوڑا وغیرہ۔ پہاڑ کی
چوٹی۔ ہر بلند جگہ۔
الطفاخ: نا۔ طفاخ۔ طفاخ: طفاخ۔
الطفاخ: مؤنث طفاخی۔ جبار۔ تکبر۔ سرکش۔
بیوقوف۔ بھلی۔ روی بادشاہوں کا لقب اور بسا
اوقات عرب زوی بادشاہوں کے علاوہ دوسروں
پر اطلاق کرتے تھے۔
طفح (ن ض) طفاخ: مؤنث: قریب ہونا

طفل

طل

طلب

۴۹۰

ہوتا۔

ظَفَلَ (ن) ظَفُوْلًا: رات کے وقت داخل ہوتا۔ ظَفَلَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔

ظَفِلَ (س) ظَفَلًا وَظَفِلَ النَّبَاتُ: نباتات کا مٹی لگ جانے سے طویل نہ ہونا۔

ظَفَلَ اللَّيْلُ: قریب ہونا۔ ظَفَلَتِ الشَّمْسُ آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الظُّجَلُ: طفلی ہونا۔ الْكَلَامُ: غور کرنا۔

ظَفَلَةٌ: نرمی برتا اور یہ ظَفَلَ الزَّاعِمِ الْإِبِلَ سے ماخوذ ہے جبکہ درواہا چلنے میں اُونٹوں سے نرمی کرے تاکہ اُونٹ کے بیچ بھی ساتھ ہو جائیں۔

أَظْفَلَ: رات کے وقت داخل ہونا۔

إِظْفَلَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے وقت سرخ ہونا۔ الْأَنْفَى: پچڑ والی ہونا۔ أَظْفَلَ الْكَلَامَ: سوچنا۔

تَظَفَّلَ: بچوں کی سی عادت اختیار کرنا۔ طفیلی ہوتا۔

الظَّفَلُ: نرم و نازک۔ ح طفلان و ظفوف مؤنث ظفلة۔

الطفيل: ہر چیز کا چھوٹا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَسْفِي لِي فِي الْأَطْفَالِ الْحَاجَاتِ" یعنی وہ میری چھوٹی چھوٹی حاجتوں میں کوشش کرتا ہے۔ ہر وحشی جانور کا بچہ۔ مؤنث طفلة۔ کہا جاتا ہے جَابِيَةٌ

ظِفْلٌ وَظِفْلَةٌ اور ظِفْلٌ واحد وجمع دونوں کیلئے مستعمل ہے اسلئے کہ اسم جنس ہے۔ الظفيل: حاجت رات۔ آفتاب جو قریب غروب ہو۔ چنگاری۔ کہا جاتا ہے "تَظْفِيْرَاتُ أَطْفَالِ النَّارِ" یعنی چنگاری اڑی۔ وَيَبْحُ ظِفْلٌ: نرم نرم چلنے والی ہوتی۔ ح اطفال۔

الظفيل: بچپن کی حالت۔ تاریکی۔ ظَفَلَ الْعِدَاةُ: طلوع آفتاب کے کچھ بعد۔ ظَفَلَ الْعَشِيُّ: غروب آفتاب سے کچھ قبل۔

الطفال و الطفال: خشک گارا۔ الطَّفُوْلِيَّةُ وَ الطَّفَالَةُ: بچپن۔

الظفيل: گدلاہانی جو حوض میں باقی رہ جائے۔ الظفيلي: بے بلائے دعوت میں شریک

ہونے والا اور یہ ایک مخصوص جس کا نام طفيل تھا اس کی طرف منسوب ہے۔

الْمُظْفِلُ: پچڑ والی (انسان ہو یا جانور) ح مظافل و مظافيل۔ کہا جاتا ہے "أَيْتَةُ مُظْفِلٍ" بچوں کو ہلاک کرنے والی ٹھنڈی رات۔

ظَفَنَ (ن) ظَفَنًا: مرنا۔ ہ: قید کرنا۔ إِظْفَانٌ: الْمَكَانُ: قابل اطمینان ہونا۔ الزُّجَلُ: اچھی عادت والا ہونا۔

الظفانين: جموت۔ لغوی بیوہ ممتنگو۔ قید۔ ظَفَا يَظْفُو ظَفْوًا وَ ظَفُوًّا: پانی پر آجانا اور یہ نشین نہ ہونا اور اسی سے ہے "السَّمَكُ الظفافي" جو چھلی کہ پانی میں مرجائے اور اوپر آجائے۔ الظنبي: ہرن کا تیز دوڑنا۔

فَوْقَ الْقُرْسِ: کود کر گھوڑے پر بیٹھنا۔ فِي الْأَرْضِ: داخل ہونا۔ فَلَانٌ: مرنا۔

الظَّفَاوَةُ: ہانڑی کا جھگکا۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنَّا ظَفَاوَةً مِنَ الرِّبْعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہل۔

الظَّفْوَةُ: باریک گھاس۔ الظَّفِيَّةُ: خمیٹ قسم کا ایک سانپ ح ظففي: ظفی۔ چھر چھر پرنے کی آواز کی نقل۔

الظَّفْسُ: طریقہ۔ طریقہ۔ دینیہ پر عموماً استعمال ہوتا ہے۔ ح ظَفُوْسٌ اور عوام کے نزدیک بمعنی حالت جو اور تغیرات جو اس میں لائق ہوں۔

ظَفَفْتُ ظَفْفَةً: الدَّوَابُّ: جانوروں کے پاؤں سے آواز لگانا۔ ظَلَّ (ن) ظَلًّا: الْغَرِيْمُ: ٹالنا۔ وَ حَقَّةٌ كَمِ كَرْنَا يَابِلٌ كَرْنَا: ظَلَّتِ السَّمَاءُ الْأَرْضَ: زمین پر ہلکی بارش ہونا۔ وَ بِالذَّهْنِ: تھل تھل۔ ظَلَّ الْإِبِلَ: اُونٹ کو تیز ہانکنا۔

ظَلَّ (س) وَ ظَلَّ ظَلًّا وَ أَظْلَ الدَّمُ: بغیر قصاص کے چھوڑ دینا۔ صفت ظَلِيْنٌ وَ مَظْلُوْنٌ وَ مَظْلٌ: أَظْلَ الدَّمُ: بغیر قصاص کے چھوڑ دینا الزمان: قریب ہونا۔ عَالِيَةً: جھانکنا۔ عَلِيٌّ حَقِيْقٌ: غالب آتا۔ کہا جاتا ہے "أَظْلَ عَلِيٌّ فَلَا يَنْ بِالْأَدَى" یعنی ہمیشہ تکلیف پہنچائی۔

ظَلَّ: گردن اٹھا کر دُور کی چیز دیکھنا اور کہا جاتا ہے "تَظَالَّتْ لَهْ" میں نے اس کو دیکھنے کے لیے

گردن اٹھائی۔ اسْتَضَلَّ: عَلَيْنَا: جھانکنا۔ الْقُرْسُ ذَنْبِيَّةٌ وَ يَذَنْبِيَّةٌ: گھوڑے کا دم اٹھانا۔ الظلّ: ہلکی بارش۔ نئی ح ظلال و ظلل خوش نما دل پسند۔ بڑی عمر والا۔ سائب (الظلّ) دودھ و بقول بعض خون۔ اُونٹنی کے دودھ کی قلت۔

الظلّ: سائب۔ الظلة: خوش نما دل پسند۔ لذیذ خوشبو۔ لذیذ شراب۔ پیوی۔ ہلکی بارش کا ترکیباً ہوا باغ۔ کھانے پینے کی وسعت۔ بڑھیا عورت۔ بد زبان۔ الظلة: ایک مرتبہ۔ دودھ پینے کی مقدار گردن ح ظلل۔ الظلاء: بے بدلہ خون۔ الظليل: بلند جگہ۔ ویران مکانات کے نشانات۔ ہر چیز کا جسم اور اسی سے ہے "أَعْبَسْنِي ظِلَّةٌ وَ زَائِنِي هَيْكَلَةٌ" یعنی اس کا جسم اور ذیل ڈول مجھے پسند آیا ح أَظْلَالٌ وَ ظَلْوُنٌ: ظلل السفيينة: کشتی کا پردہ۔ ظلل النساء: پانی کی سطح الظلل من الدار: چھوڑنا۔

الظلاله: ہر چیز کا جسم۔ اچھی نیت۔ اچھی حالت۔ ترو تازگی۔ شادمانی۔ ویران مکان کے نشانات۔ الظليل: پرانی چٹائی ح ظلل و اظلم و ظلل۔ النضلّ: بلند مکان جس سے جھانکا جائے۔ المظلول: مہم۔ مِنَ الْأَعْيُنِ: جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔ المظليل: کمز۔ ظَلَبَ (ن) ظَلْبًا: الشئ: دُھوڑنا۔ اَلْيَبِي: راعب ہونا۔ ظَلَبَ (س) ظَلْبًا: دُور ہونا۔ تَظَلَّبَ وَ اِظْلَبَ: الشئ: نگلنے کے ساتھ اور بار بار دُھوڑنا۔ ظَلَبَ: الشئ: مہلت سے دُھوڑنا۔ ظَالِبُهُ ظَلَابًا وَ مَظَالِبُهُ: اپنا حق مانگنا۔ اَظْلَبُهُ: مانگنے کے لیے مجبور کرنا۔ طلب کردہ چیز کو مانگنا۔ کہا جاتا ہے "أَظْلَبَةُ الْفَقْرِ" یعنی فقر نے مانگنے پر مجبور کر دیا۔ اَظْلَبَ الْمَاءُ: دُور ہونا کہ

گردن اٹھائی۔

اسْتَضَلَّ: عَلَيْنَا: جھانکنا۔ الْقُرْسُ ذَنْبِيَّةٌ وَ يَذَنْبِيَّةٌ: گھوڑے کا دم اٹھانا۔

الظلّ: ہلکی بارش۔ نئی ح ظلال و ظلل خوش نما دل پسند۔ بڑی عمر والا۔ سائب (الظلّ) دودھ و بقول بعض خون۔ اُونٹنی کے دودھ کی قلت۔

الظلّ: سائب۔ الظلة: خوش نما دل پسند۔ لذیذ خوشبو۔ لذیذ شراب۔ پیوی۔ ہلکی بارش کا ترکیباً ہوا باغ۔ کھانے پینے کی وسعت۔ بڑھیا عورت۔ بد زبان۔

الظلة: ایک مرتبہ۔ دودھ پینے کی مقدار گردن ح ظلل۔ الظلاء: بے بدلہ خون۔

الظليل: بلند جگہ۔ ویران مکانات کے نشانات۔ ہر چیز کا جسم اور اسی سے ہے "أَعْبَسْنِي ظِلَّةٌ وَ زَائِنِي هَيْكَلَةٌ" یعنی اس کا جسم اور ذیل ڈول مجھے پسند آیا ح أَظْلَالٌ وَ ظَلْوُنٌ: ظلل السفيينة: کشتی کا پردہ۔ ظلل النساء: پانی کی سطح

الظلل من الدار: چھوڑنا۔ الظلاله: ہر چیز کا جسم۔ اچھی نیت۔ اچھی حالت۔ ترو تازگی۔ شادمانی۔ ویران مکان کے نشانات۔

الظليل: پرانی چٹائی ح ظلل و اظلم و ظلل۔ النضلّ: بلند مکان جس سے جھانکا جائے۔

المظلول: مہم۔ مِنَ الْأَعْيُنِ: جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔ المظليل: کمز۔

ظَلَبَ (ن) ظَلْبًا: الشئ: دُھوڑنا۔ اَلْيَبِي: راعب ہونا۔ ظَلَبَ (س) ظَلْبًا: دُور ہونا۔

تَظَلَّبَ وَ اِظْلَبَ: الشئ: نگلنے کے ساتھ اور بار بار دُھوڑنا۔ ظَلَبَ: الشئ: مہلت سے دُھوڑنا۔

ظَالِبُهُ ظَلَابًا وَ مَظَالِبُهُ: اپنا حق مانگنا۔ اَظْلَبُهُ: مانگنے کے لیے مجبور کرنا۔ طلب کردہ چیز کو مانگنا۔ کہا جاتا ہے "أَظْلَبَةُ الْفَقْرِ" یعنی فقر نے مانگنے پر مجبور کر دیا۔ اَظْلَبَ الْمَاءُ: دُور ہونا کہ

بغیر وہودے نہ مل سکے۔

الطَّلْبَةُ اسم ہے مطالبہ کا۔ طلب کی نوعیت (و الطَّلْبَةُ) جو چیز طلب کی جائے۔

الطَّلِبُ جو چیز طلب کی جائے۔ طلب کرنے والا۔ ج اظْلَاب و طَلْبَةٍ۔

الطَّلْبَةُ ذور کا سفر۔

الطَّالِبُ فا۔ شاگرد۔ ج طَلَبَةٌ و طَلَّابٌ و طَلَّبَ و طَلَّبْتُ۔

الطَّلُوبُ بہت زیادہ طلب کرنے والا۔ بٹنر طَلُوبٌ کنواں جس کا پانی دور ہو۔ ج طَلَّبَ الطَّلِبُ بہت زیادہ مانگنے والا۔ ج طَلَّبَاءُ۔

الطَّلَابُ بہت زیادہ مانگنے والا۔ الطَّلْبِيَّةُ مومنات طَلِبَاتُ ج طَلَّابَاتُ۔

المُطَلَّبُ طلب کرنا۔ مقصد کسی علم کا کوئی مسرت ج مَطَالِبُ۔

المُطَلَّبُ فا۔ مائة مُطَلَّبٌ دور کا پانی۔ المَطْلُوبُ مقم۔ جو طلب کیا جائے۔ ج مَطَالِبُ۔

طَلَّتْ (ن) طَلُوبًا۔ الماءُ پانی بہنا۔ جاری ہونا۔

طَلَّتْ عَلَيَّ كَذَا زیادہ ہونا۔ الطَّلْفَةُ جابل۔ ضعيف العقل۔ کمزور دماغ۔

طَلَّحَ (ف) طَلَّحًا و طَلَّحًا التَّبَعِيَّةُ اؤنٹ کا تھکانا۔ صفت طَلَّحٌ و طَلَّحٌ و طَلَّيْحٌ۔

طَلَّحَ التَّبَعِيَّةُ و طَلَّحَهُ و أَطَلَّحَهُ تھکانا۔ طَلَّحَ عَلَيَّ فَلَانٍ اصرار کرنا۔ طَلَّحَ التَّبَعِيَّةُ تھکانا۔

طَلَّحَ (ن) طَلَّاحًا فاسد ہونا۔ خراب ہونا۔ طَلَّحَ (س) طَلَّحًا و طَلَّحًا بیٹ خالی ہونا۔

صفت طَلَّيْحٌ و طَلَّحٌ و طَلَّحٌ۔ طَلَّحَتْ اِبْرَائِيلَ طَلَّاحًا ببول کھانے سے پیٹ خراب ہونا۔

الطَّلَّحُ شگوفہ۔ درخت خرما۔ کیلا۔ حوض کا بقیہ گدلا پانی۔ ببول کا درخت۔ واحد طَلَّحَةٌ۔

الطَّلْحُ لاغر۔ تھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے بَيْتِي طَلَّحٌ و نَاقَةٌ طَلَّحٌ ج اَطْلَاحٌ و طَلَّاحٌ۔

مَكَانٌ طَلَّحٌ جس میں ببول کے درخت زیادہ ہوں۔

الطَّلْحُ نعمت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي طَلَّحٍ" وہ

خوش عیش ہے۔

الطَّلَّاحُ فا۔ درکار۔ ج طَلَّاحُونَ و طَلَّحٌ نَاقَةٌ طَلَّاحٌ و اِبْرَائِيلُ طَلَّحٌ تھکے ہوئے اؤنٹ۔

الطَّلَّاحُ کبیر کا درخت۔ اِبْرَائِيلُ طَلَّاحٌ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا اؤنٹ۔

الطَّلَّيْحُ بچھڑی۔ لاغر۔ تھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے بَعِيْرٌ طَلَّيْحٌ و نَاقَةٌ طَلَّيْحَةٌ و طَلَّيْحٌ ج طَلَّايْحٌ و طَلَّيْحِي۔

الطَّلَّيْحِيَّةُ کانڈ کا ایک ورق ج طَلَّايْحِي۔ المَطَّلَعُ فِي الْكَلَامِ بہتان گھڑنے والا۔

فِي الْعَمَلِ نَالٌ مِّنْ طَلَّحٍ طَلَّحٌ طَلَّحًا الشَّقِيُّ کالا کرنا۔ طَلَّحَ (ن) طَلَّحًا۔ الشَّقِيُّ کالا کرنا۔

الْكَيْتَابَةُ خراب کرنا۔ فُلَانًا بِالْقَدْرِ لست بہت کرونا۔

اِطَّلَحَ الذَّمُّعُ بہنا۔ بکھرتا۔ الطَّلْحُ خراب پانی۔

الطَّلْحَاءُ بہت خوف غورت۔ اِطَّلَحْتُمُ الرَّجُلُ تکبر کرنا۔ غرور کرنا۔

أَمْوَالٌ مُطَّلَحَاتٌ سخت و دشوار امور۔ طَلَّسَ (ش) طَلَّسًا التَّبَصُّرُ نگاہ کا ضائع ہونا۔

و طَلَّسَ الْكَيْتَابَةَ لکھے ہوئے کو مٹا دینا۔ طَلَّسَ (س) طَلَّسًا و طَلَّسَ (ک) طَلَّسَةً۔

خاستری مائل بہ سیاہی ہونا۔ صفت اَطَّلَسَ ج طَلَّسٌ۔

طَلَّسَ بِهِ فِي السَّجْنِ بید خانے میں ڈالا جانا۔ تَطَّلَسَ الْكَيْتَابُ خٹا (ن) و تَطَّلَسَ الرَّجُلُ طَلَّسَانَ استعمال کرنا۔

اِنطَّلَسَ الْأَمْرُ پوشیدہ ہونا۔ اِطَّلَسِي اِطَّلَسِيَّةً العزوفی سارے جسم پر پسینہ بہنا۔

الطَّلَسُ کالی چادر۔ الطَّلَسُ مٹایا ہوا کانڈ۔ میلا کپڑا ج اَطَّلَسَ۔

الطَّلَسَةُ خاستری مائل بہ سیاہی۔ پٹا پٹا بادل ج طَّلَسٌ۔

الطَّلَّاسَةُ بچھڑا جس سے لکھی ہوئی سختی صاف کی جائے۔

الطَّلَّيْسُ اندھا۔ الطَّلَّيْسُ سبز رنگ کی چادر جس کو مشائخ و علماء

استعمال کرتے تھے اور یہ بھیوں کا لباس ہے ج طَّلَّيْسُ۔

الطَّلَّيْسَانُ بمعنی طَّلَّيْسٌ ج طَّلَّيْسٌ و طَّلَّيْسَانَةٌ۔

الْأَطَّلَسُ بھیشرا جس کے بال گر گئے ہوں اور اس کا رنگ خاستری مائل بہ سیاہی ہو۔ پرانا کپڑا۔ میلا۔ چور۔ ریشمی کپڑا۔

طَلَّسَمَ عَنِ الْقِتَالِ لڑائی سے پیچھے ہٹنا۔ الرَّجُلُ سر جھکانا اور منہ بگاڑنا۔

السَّاجِزُ جاوید کا مسرت لکھنا۔ الطَّلَّسَمُ جاوید کی لکیریں یا تحریر ج طَّلَّاسِمٌ۔

الطَّلَّسَمُ بمعنی طَّلَّسَمَ ج طَّلَّسَمَاتٌ۔ الطَّلَّشُ چھری۔

طَلَّظَلَهُ حُرکت دینا۔ الطَّلَّظِلُ و الطَّلَّظِلَةُ معیبت۔

الطَّلَّظِلَةُ معیبت۔ موت۔ طلق کا کڑا۔ الطَّلَّظِيلُ موت۔ سخت مرض۔

طَلَّحَ (ن) طَلَّوْعًا و مِظْلَعًا و مِظْلَعًا الكَوْكَبُ و نَخْوَةٌ ستارہ وغیرہ کا لگانا۔

عَلَيْهِمْ مَتَوَجِّهٌ ہونا۔ عَنْهُمْ قَاتِبٌ ہونا اور دور ہونا۔

طَلَّحَ (ف ن) و طَلَّحَ (س) طَلَّوْعًا الْعَجَبِلُ پہاڑ پر چڑھنا۔ عَلَيَّ الْأَمْرُ جانا۔

الْبِلَادُ لنگوں کا قاعدہ کرنا۔

الْمَكَانُ بچھٹنا۔ مِنَ الْبِلَادِ شہروں سے لگانا۔ و طَلَّحَ التَّخْلُ جھونڈ لگانا۔ طَلَّحَ الْكَيْبِلُ بیانیہ کو بھرتا۔

طَلَّعَهُ مَطَّلَعَةً و طَلَّعًا زیادتی غرور و فکر سے مطلع ہونا۔ الْكَيْتَابُ کتاب چڑھنا۔

هَذَا أَمْرٌ بِيَشٍ کرنا۔ کہا جاتا ہے "طَالِغِي سَمَلٌ وَ قَبْتُ بِكَيْبَلِكُ" یعنی اپنی کتابوں کو ہر وقت میرے سامنے پیش کرو۔

أَطَّلَعَ الْكَوْكَبُ ستارہ کا لگانا۔ النَّبَاتُ نباتات کا اگانا۔ التَّخْلُ جھونڈ لگانا۔

الشَّجَرُ درخت کے پتے لگانا۔ التَّخْلَةُ درخت خرما کا طویل ہونا۔ عَلَيَّ الشَّقِيُّ جھانکنا۔ الْفَعْجُو جھجھکے کے طلوع ہونے کو دیکھنا۔ هُوَ عَلَيَّ سِتْرِهِ

واقف کر دیا۔ اَطْلَعُ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا اچھا سلوک
کرتا۔ اَطْلَعَهُ طَلَعُ أَمْرِهِ حقیقت حال کو ظاہر کر
دینا۔ الزَّجَلُ: بے کرنا۔ الزَّامِي:
تیر کا نشانہ کے اوپر سے نکل جانا۔ عَلِي
فُلَانٍ: اچانک پہنچ جانا۔

اَطْلَعُ الْأَمْرَ وَعَلَيْهِ: جاننا۔ عَلَيْنَا:
اچانک آ جانا۔ الْفَجْرُ: طلوع فجر کو دیکھنا۔
اَطْلَعُ طَلَعُ الْعَدُوِّ: دشمن کی حقیقت حال سے
واقف ہونا۔

تَطْلَعُ: جاننا۔ چہرے کی طرف دیکھنا۔ الزَّجَلُ:
پالینا۔ غَابَ آتَا: تَطْلَعُ الْمَكْرِيَالُ: بیانہ کا بھر جانا
۔ الْمَاءُ مِنَ الْإِنَاءِ: پانی کا بھرتن کے کناروں
سے اٹل پڑنا۔

اِسْتَنْطَعُ: ظاہر ہونے کی خواہش کرتا۔
حقیقت حال دریافت کرتا۔ اِسْتَنْطَعُ زَائِنِ
فُلَانٍ اِسْتَنْطَعُهُ زَائِنَهُ: کسی کی رائے و تدبیر
غور کرتا۔

الطَّلَعُ: مقدار۔ تم کہتے ہو "الْجَيْشُ طَلَعُ
أَلْفِي" یعنی لشکر ہزار کی مقدار میں ہے۔
مِنَ النَّخْلِ: بھجور کا کھانا۔ شُكُوذٌ۔

الطَّلَعُ: اسم ہے اطلاع کا۔ کہا جاتا ہے "اَطْلَعُ
طَلَعُ الْعَدُوِّ" وہ دشمن کی حقیقت حال کو جان
گیا۔ سَابَ۔

الطَّلَعُ وَالطَّلَعُ: بلند مکان جہاں سے
جھانکیں۔ كُوشٌ۔
الطَّلَعَةُ: دیدار۔ چہرہ۔

اِمْرَاةٌ طَلَعَةٌ: عورت بہت زیادہ ظاہر ہونے
والی۔ کہا جاتا ہے "نَفْسٌ طَلَعَةٌ" یعنی اپنی
خواہشات کی طرف زیادہ میلان رکھنے والا نفس۔

الطَّلَاعُ مِنَ الْإِنَاءِ: پری ج طلع۔ و طلاعُ
السُّنِيِّ: مقدار شئی۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَّلَاعُ
هَذَا" یعنی یہ اس کی مقدار ہے "عَيْنٌ طَّلَاعٌ"
آنسو سے بھری ہوئی آنکھ۔ قَدْحٌ طَّلَاعٌ: بھرا
ہوا ہالہ۔

الطَّلَاعُ: مبالغہ طالع۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
طَّلَاعٌ مِنَ النَّبَاتِ وَالْأَنْجِدُ" یعنی وہ بڑے بڑے
انوسر کا قصہ کرتا ہے یا وہ امور میں تجربہ کار ہے
جن کی تدبیر اچھی طرح کرتا ہے۔

الظَّلْمَاءُ وَالظَّلْوَعُ: بے۔

الظَّلِيْمَةُ مِنَ الْجَيْشِ: ہراول۔ مقدمة
الجيش جو لشکر کے پہلے بھیجا جائے تاکہ دشمن
کے احوال و کوائف کی تفتیش کرے۔ واحد و جمع
دونوں میں مستعمل ہے۔ ج طلالع۔

الطَّالِعُ: نا۔ پہلی رات کا چاند۔ جمر کا زب
عِنْدَ أَصْحَابِ الْقَالِ: زا بچہ۔ ستاروں کے طلوع
سے جس پر سعد و نحس کا ٹھکانا لیا جائے۔ ج
طَوَالِعُ۔

الظَّلْوَعُ: بمعنی ظالع۔
الْمَطْلَعُ وَالْمَطْلَعُ: ستاروں کے طلوع ہونے
کی جگہ۔ بِلُغْمِي: بڑھنے کی جگہ۔ مَطْلَعُ: مَطْلَعُ
الْأَمْرِ: کسی کام کے حصول کا ذریعہ و طریقہ۔
مَطْلَعُ الْقَصِيْدَةِ: قصیدہ کا پہلا شعر۔

الْمُطَّلِعُ: نا۔ قوی غالب۔
الْمُطَّلِعُ: مفع۔ آنے کی جگہ۔ اُوچے سے
جھانکنے کی جگہ۔

طَلَفٌ عَلَيْهِ: زیادہ کرتا۔
اَطْلَفَهُ كَذِبًا: بہرہ کرتا۔ اَطْلَفَ الدَّمُ: خون کو
رایگاں کرتا۔

الطَّلْفُ: داد و دہش۔ آسان چیز۔ زائد چیز)
و الطَّلْفُ: رایگاں۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبٌ
ذَمَةٌ طَلْفًا" یعنی اس کا خون رایگاں کیا۔

الظَّلِيْفُ: ماخوذ۔ رایگاں۔ باطل۔
طَلَّقَ (ض) طَلْفًا السُّنِيُّ فُلَانًا: دینا طلق بَدَهُ
بِخَيْرٍ: بھلائی کے لئے ہاتھ کھولا۔

طَلَّقَتْ (ن) طَلْفًا: الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا
عورت کا شوہر سے جدا ہونا اور اس کو چھوڑ دینا۔
صفت طالق ج طلق و طلاق۔ ج طَوَالِقِ النَّاقَةِ:
پاؤں باندھنے کی رستی سے کھل جانا۔

طَلَّقَ (س) طَلْفًا: بَعِدَ: ہونا۔
طَلَّقَ (ك) طَلْفًا وَ طَلْفًا: اللِّسَانُ: فصیح
خوش بیان ہونا۔
طَلَّقَ (ك) طَلْفًا وَ طَلْفًا: الرَّجُلُ: جس کھ
ہوتا۔

طَلَّقَتْ الْمَرْأَةُ طَلْفًا: درد زہ والی ہونا۔ صفت
مَطْلُوْقَةٌ۔
طَلَّقَ قَوْمًا: قوم کو چھوڑ دینا۔ جدائی اختیار کرنا

الْمَرْأَةُ زَوْجِهَا: قید نکاح سے علیحدہ کر
دینا۔ التَّخْلَةُ: درخت خرماس گا بھاریا۔

أَطْلَقَ الْمَرْأَةَ وَ التَّخْلَةَ: بمعنی طلق۔
النَّوْاسِيْنُ: چھوڑ دینا۔ الْاَسِيْرُ: قیدی کو
آزاد کرنا۔ بَدَهُ بِخَيْرٍ: بھلائی کیلئے ہاتھ

کھولنا۔ فَعِن كَلَامِهِ: تمہیر کرنا۔ مقید نہ
کرتا۔ کہا جاتا ہے "أَطْلَقَ رَجُلًا" یعنی جلدی کی
"أَطْلَقَ الدَّوَاءَ بَطْنَهُ" یعنی روانے اس کے پیٹ
کو چلا دیا یعنی دست جاری ہو گیا۔ "أَطْلَقَ خَيْلَهُ
فِي الْحَلْبَةِ" یعنی اپنے گھوڑے کو میدان
سابقہ میں دوڑایا۔

تَطَلَّقَ وَجْهَهُ: کشادہ رو ہونا۔ تَطَلَّقَتْ
الْعَيْنُ: گھوڑوں کا بغیر روک کے ہتھی پر پہنچ
جانا۔

اِنطَلَقَ: جانا۔ لِسَانُهُ: زبان کا روال
ہونا۔ وَجْهُهُ: کشادہ رو ہونا۔
نَفْسُهُ لِأَمْرٍ: شرح صدر ہونا۔ اِنطَلَقَ
بِهِ: لے جایا جانا۔

اِسْتَنْطَلَقَ: التَّبَلُّغُ: بیٹھ چلنا۔ الظَّنِي:
ہرن کا تیزی سے دوڑنا اور کسی چیز کی طرف سائل
نہ ہونا۔ الْأَمْرُ: کام میں جلدی کرنا۔

الطَّلُقُ: مہ۔ درو زہ۔ ہرن۔ ج اطلاق)
و الطلق و الطلق و الطلق و الطلق
و الطلوق) آزاد۔ غیر مقید۔ کہا جاتا ہے "خُبْسٌ
طَلْقًا وَ طَلْقًا" یعنی بغیر بھکھری کے قید کیا گیا۔ یوم

طلق: دن جس میں نہ سردی ہونے گرمی۔ فَرَسٌ
طَلْقُ الْيَدِ: گھوڑا جس کی اگلی ٹانگوں میں سفیدی
نہ ہو۔ وَجَلٌ طَلْقُ الْيَدَيْنِ: سخی۔ وَجَلٌ طَلْقُ
الْوَجُوهِ وَ طَلْقُهُ وَ طَلْقُهُ وَ طَلْقُهُ: کشادہ
رو مرد۔ جس کھ۔ کہا جاتا ہے "لِسَانُهُ طَلْقُ

و طلق و طلق" یعنی اس کی زبان تیز و طرار
ہے۔ الطلق: حلال۔ حصہ۔ کھانا بنا ہوا بند۔
الطلق و الطلق: ابرک۔

الطلق: مہ۔ گھوڑے کی دوڑ کا ایک چکر۔
آنت۔ رستی مضبوط بنی ہوئی۔ کھال کا تیا ہوا بند
ج اطلاق۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَحْتُ مِنْ مَالِهِ
طَلْفًا" مجھے اس کے مال سے حصہ ملا۔ کہا جاتا ہے

”علی الاطلاق او مطلقاً“ یعنی عام طریقہ سے بلا کسی اشتاء کے۔

الظلقاء۔ وہ حضرات جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور ان پر احسان کیا گیا۔

الطلاق والمطلاق والمطيلق۔ بہت زیادہ طلاق دینے والا۔

المطلق۔ خلاف مقید۔ من الخیل وہ گھوڑا جس کی ایک ٹانگ میں سفیدی نہ ہو۔

ظلم (ن) ظلمنا وظلم۔ الخیزة: روٹی کو ہاتھ سے ہموار کرنا۔ ظلم العرق عن جبینہ: پیشانی سے بہندہ پونچھنا۔

الظلم۔ روٹی پھیلانے کا تختہ۔

الظلم۔ دانتوں کا میل۔

الظلمة۔ روٹی جو ظلم۔ المظلمة۔ بیلن۔ عام لوگ اسے شوک کہتے ہیں۔

ظلمس۔ ترش روٹی کرنا۔ تیوری چڑھانا۔

الظلمس۔ المنا۔

الظلمس۔ الذیل: تخت تاریک ہوتا۔

الظلمساء۔ تاریکی۔ بغیر کسی علامت کے زمین۔ پتلا پتلا بدل۔

ظله (ف) ظلنا۔ الرجل فی البلاد: جانا۔

آہستہ چلنا۔

إظله إظلاها۔ مطلع ہونا۔

الظله۔ پتلا بدل۔

الظلیة۔ بقیہ مال۔

ظلاءة یظلو ظلاً۔ ٹانگ باندھنا۔

ظلاً یظلو ظلاً و ظلاً الرجل: دیر کرنا۔

أظلت الوحشینیۃ: بچے والی ہونا۔

إظلولی الظلیة: اچھی گفتگو والا ہونا۔

الظلاءة والظلو۔ ہرن کا بچہ پیدا ہونے وقت۔

ہرچیز کا چھوٹا جلاؤ اور جلاؤ و ظلی و ظلیان و ظلیان و ظلیان۔

الظلو۔ بھینسا۔

الظلوۃ۔ جانوروں کا بچہ۔

الظلوۃ: صبح کی سفیدی۔

الظلاءة و الظلاءة و الظلاءة۔ وہ حسن و

رواق۔ کہا جاتا ہے ”هذا کلام ما علیہ

ظلاءة“ یعنی یہ ایسی گفتگو ہے جس میں کوئی خوبی

وروق نہیں۔ منہ میں کھانے کا بقیہ۔ جلاؤ۔ خون یا

دودھ پر کی تپتی جھلی۔ الظلاءة: جو کسی چیز پر طلاء

کیا جائے۔

طلی یظلی ظلیاً: ٹانگ باندھ کر رکھنا۔

التعبیر القظران او بالتمظران: اونٹ پر قطران

لانا (دیکھئے القظران)۔ الشئی: روکنا۔

طلی (س) طلی فؤة: دانتوں میں زردی ہونا

لسانہ: زبان کا کھیل ہونا۔

طلی تطلیتہ۔ گانا۔ فلاناً: قید کرنا۔ گالی

دینا۔ البعبور القظران: اونٹ پر قطران لانا

(دیکھئے القظران)۔ اللیل الأفاق: رات کا

آفاق کو دھانپ لینا۔

أظلی۔ کمزوری یا کسی درجہ سے گردن کا جھکانا۔

تظلی۔ کھیل کود میں منہمک رہنا۔

واظلی بالظظران: قطران سے لت پت ہونا۔

الظلی۔ فحش۔ قطران ملا ہوا۔ سخت مریض۔

ہرن کا بچہ یا ظلاء۔ خواہش۔ کہا جاتا ہے ”قضی

ظلاءة“ یعنی اپنی خواہش پوری کی۔

الظلی۔ لذت۔

الظلاء۔ قطران۔ انگور کا رس جس میں سے

پکانے کی وجہ سے دو تہائی جاتا رہے۔ اور شراب

سے بھی کٹایا گیا جاتا ہے۔ رستی جس سے ہرن کے

بچے کے پیر کو باندھیں (س) والظلاءة) ہر وہ

چیز جس کو طلا کیا جائے۔

الظلاء۔ خون کے اوپر کی باریک جھلی۔

الظلی۔ دودھ ایک مرتبہ پینے کی مقدار۔

الظلیة والظلاءة۔ گردن جو ظلی۔

الظلی۔ بکری کا چھوٹا بچہ یا ظلیان (س)

والظلیان اور دانتوں کی زردی۔

المظلی والمظلاء۔ ننگ نالرج مظال۔

المظلی۔ دائم المرض۔ کمزور مریض۔ قیدی کہ

جس کی رہائی کی امید نہ ہو۔

ظلم (ن) ظلمنا وظلمنا۔ الإناء: برتن بھرنا

الشعور: بال کا ٹانبا یا کرہ لگانا۔ الماء:

ڈھانپ لینا۔ الشئی: زیادہ ہونا۔

الأمر: بڑا ہونا۔

ظلم (ض) ظلمنا البئر: کنوئیں کو پات دینا۔

ظلم (ن) ظلمنا وظلمنا۔ الفرس:

گھوڑے کا آہستہ آہستہ دوڑنا۔

ظلم وظلم وظلم وظلم۔ الطائر: پرندہ کا نشی پر

آرتا۔

أظلم واستظلم الشعور: بال کاٹنے کا وقت

قریب ہونا۔

الظلم: پانی۔ سمندر۔ عدد کثیر۔ عمدہ گھوڑا۔

تعجب۔ تعجب انگیز۔ کہا جاتا ہے ”جاء بالظلم

والزم“ یعنی بہت مال لایا۔

الظلمة من الناس: جماعت ظممة القوم قوم

کے جمع ہونے کی جگہ۔

الظلم۔ آہستہ دوڑ۔ عمدہ گھوڑا۔ ظلمیم

الناس: مختلف قسم کے لوگ۔

فوش ظلموم۔ حیر رمار گھوڑا۔

الظامة۔ بڑی مصیبت۔ قیامت۔

الأظالم۔ ٹانگیں۔

ظلمنا (ن) وظلمنا۔ الشئی: چھوٹا۔

ظلمت وظلمت (ن) ظلمنا۔ المزاة:

حائض ہونا۔ صفت ظالمات۔

الظلمت مہ۔ میں کچیل۔ فساد۔ خون۔ حیض۔

تمت۔ کہا جاتا ہے ”ما یفلان ظلمت وریبة“

یعنی فلاں کے ساتھ تمہمت کا میل کچیل نہیں۔

ظلمح (ف) ظلمحا وظلمحا وظلموحا

بصرہ الیہ: نگاہ اٹھنا۔ بصرہ الیہ: بلندی کی

جانب دیکھنا۔ بالقیہ: مغرور ہونا۔ ناک

چڑھانا۔ یہ: لے جانا۔ فی

الظلب: کوشش کرنا۔

ظلمحت (ف) ظلمحا وظلموحا۔ الذابئة

جانور کا سرکش ہونا۔ المزاة علی

زوجہا: عورت کا نافرمان ہونا۔ صفت ظالمیح

رج ظلموح۔

ظلمح الفرس: گھوڑے کا اگلی ٹانگوں کو اٹھانا

بالشئی فی الهواء: بھینکانا۔

أظلمح بصرہ الیہ: نگاہ اٹھانا۔

بجرح ظلموح الموج: بلند موج والا سمندر۔

ظلمحات الذہر وظلمحاتہ: مصائب۔

الظلماح۔ غرور۔ فخر۔

الظلماح۔ دور۔ حریص۔

طَمَحَ (ن) طَمَحًا بِأَنْفِهِ: تَكَبَّرَ كَرًا۔

طَمَرَ (ض) طَمْرًا الشَّيْءُ: دُمِنَ كَرًا۔ چمپانا
طَمْرًا وَ طَمْرُوزًا وَ طَمَارًا وَ طَمْرَانًا
کودتا۔ آپھلتا۔

طَمْرَ (ن) طَمْرُوزًا۔ جانا۔ سفر کرنا۔

طَمْرَ (ن) طَمْرًا۔ المَطْمُورَةُ: کھیتی بھرتا۔
() وَ طَمِيرٍ (س) طَمْرًا الجُنْحُ: سونج
جانا۔

التُّدُّ: روم آجانا۔

طَمِرَ فِي حَبْرٍ مَرِيحًا: دواڑھ میں درود ہونا۔

طَمَّرَ الشَّيْءَ: لِيَثْبُتَ اَوْرَدْنِ كَرًا
الْبَيْتَ: پروردہ لگانا۔

إِطْمَرَ: عَلَى قُرْبِهِ: چھپنے سے کود کر سوار
ہونا۔

الطِّمْرُ: پُرَانَا كِبْرًا جَوْ كَسِي حَبْرًا كَمَا لَمْ يَدْرُج
أَطْمَارًا: كَمَا جَاتَا فِي "لَا حَبَّ الشَّمْسِ فِي
الْأَطْمَارِ" یعنی زرد رنگ کا ہو گیا اور اس کی کچھ
روشنی جاتی رہی۔

الطِّمْرُ وَ الطَّمْرُ وَ الطَّمْرُورُ وَ الطَّمْرُورُ
لَبِي نَائِمُونَ كَاتِبِينَ رَقْمًا كَمُورًا۔

الطَّامِرُ: فَـ بِسُورَةِ طَوَاهِرٍ: كَمَا جَاتَا فِي "هُوَ
طَّامِرٌ بَيْنَ طَّامِرٍ" وہ مجھول ہے یہ بھی نہیں معلوم
کہ اس کا باپ کون ہے۔

الطَّمْرُ: جَمَلٌ نَادِيٌّ۔
طَمْرُةُ الشَّبَابِ: اِبْتِدَاءُ شَبَابٍ۔ عَقْوَانِ

شَبَابٍ۔
الطَّامِرُورُ وَ الطَّوَامِرُ: صَحِيحٌ جَ طَوَاهِرٍ: كَمَا
جَاتَا فِي "كَتَبَ فِي الطَّوَامِرِ وَ الطَّوَاهِرِ"۔

المِطْمَرُ وَ المِطْمَارُ: مَعْمَارُونَ كَمَا دَهَاكَ۔
پرانے لباس والا۔ کما جاتا ہے "هُوَ عَلِيٌّ مِطْمَارٌ
أَيْتُهُ" وہ صورت و سیرت میں اپنے باپ کے
مشابہ ہے۔

المِطْمُورَةُ: کھیتی قید۔

طَمَسَ (ن) طَمْسًا: دُور ہونا۔ کما جاتا ہے
"لَا أَدْرِي أَيْنَ طَمَسَ" میں نہیں جانتا کہاں گیا
_____ یعنی: دُور تک دیکھنا۔

طَمَسَ (ن) ض) طَمَسًا وَ طَمُوسًا وَ
تَطَمَسَ وَ انطَمَسَ۔ مٹا۔ طَمَسَ النَجْمُ اَو

الْبَصْرُ سِتَارَهُ يَأْتِيكَ كَابُ نُورٍ هَوَاتٍ۔

طَمَسَ (ض) طَمْسًا الشَّيْءَ: مٹانا۔ ہلاک کرنا۔
ڈھانپ لینا۔ جڑ کھورنا _____ الغَيْمُ النُّجُومُ:
بادل کا ستارے کی روشنی کو زائل کر دینا۔

طَمَسَ (ض) طَمْسًا الشَّيْءَ: اندازہ کرنا۔

زُبُوعٌ طَمَّاشٌ: مٹے ہوئے مکانات۔

الظَّمِيسُ وَ المِظْمُوسُ: اندھا۔

ظَمَّظَمَ: وَسُوطٌ سَمَدٌ فِي تَمِيرَةٍ۔

الظَّمْظَامُ: وَسُوطٌ سَمَدٌ۔

الظَّمْظَمُ وَ الطَّمْظِمِيَّ وَ الظَّمْظِمَاتِيَّ ذُبَانٌ
كِي لَكْتِ وَ اللَّا۔

طَمَعَ (س) طَمْعًا وَ طَمَاعًا وَ طَمَاعِيَّةً فِي
الشَّيْءِ وَ يَه: لالچ کرنا۔ صفت طامِعٌ وَ طَمْعٌ وَ
طَمْعٌ جَ طَمِغُونٌ وَ طَمْعَاءٌ وَ أَطْمَاعٌ
وَ طَمَاعِيٌّ۔

طَمَعُ (ك) طَمَاعَةٌ: سِتَ لالچ کرنا۔

طَمَعَةٌ: لالچ پر راغبیت کرنا۔

أَطْمَعَةٌ: لالچ میں ڈالنا۔

تَطْمَعُ: لالچی ہونا۔ خواہش مند ہونا۔

الطَّمْعُ: وَ هُوَ جِزٌّ مِّنْ خَوَاشِشِ كِي جَاءَ فِي الشُّكْرِي
تَتَوَاهَجُ أَطْمَاعٌ۔

الطَّمَاعَةُ: خَوَاشِشٌ مَنَدِيٌّ۔

الطَّمَاعُ وَ المِطْمَاعُ: سِتَ زَادَةُ لالچی۔

المِطْمَاعُ: جِزٌّ مِّنْ خَوَاشِشِ كِي جَاءَ فِي
مِطْمَاعٍ۔

المِطْمَاعَةُ: بَاعَثَ طَمَحَ لالچ پر اُسنانے والی چیز۔
طَمِغَتْ (س) طَمْعًا عَيْتُهُ: آگے کا سِتَ کچھ
وال ہونا۔

طَمَلَّ (ن) طَمَلًا الخَبْرُ الخَبْرُ: رُوِي كَوَيْلِيْن
سے چوڑی کرنا _____ القُوبُ: کپڑے کو گھرا
رنگنا۔

الدَّمُ السَّهْمُ وَ عَيْتُهُ: خُونٌ كَاتِبٌ كَوَيْلِيْنُ
الزَّاجِعِيُّ: جِزٌّ مِّنْ خَوَاشِشِ سَهْمَانِيٍّ۔

طَمِلَ (س) وَ طَمِلَ طَمَلًا: خُونٌ تَمِلُ يَأْتِي
تَارِكُورٌ سَهْمِيْنُ: صفت طَمِيلٌ۔

أَطْمَلُ: الكِتَابُ: مَارِيَةٌ۔

إِنطَمَلَ الزَّجَلُ: جُورُونَ كِي سَاتَهُ شَرِيكٌ
ہونا۔

الظَّمَلُ: خَمِيرٌ كَوَيْلِيْنُ هَوَاتٍ خَلْقٌ۔

الظَّمَلُ: يُوْقِفُ: كَمِينٌ بِدَكَارٍ بِدُزْبَانٍ جَوْنٌ
اپنے فعل پر شرعاً اور نہ کسی کے کچھ کہنے کی
پر واکرے۔ کالا کبیل۔ فقیر۔ بد حال بد شکل ہار۔

پرانہ کپڑا۔ جَ طَمُولٌ () _____ وَ الظَّمَلَةُ
وَ الظَّمَلَةُ: كَدَلَابَانِيٌّ۔ کچھڑ۔

الظَّمَالُ: فَـ: مَرْدٌ بِدَكَارٍ جَوَاسِطِ فَعْلِ كِي پُرَوَانِ
کرتے۔

الظَّمِيلُ: كَدَلَابَانِيٌّ۔ كِنَامٌ۔ چٹائی۔ ہار۔ کھوار
وغیرہ کا چوڑا پھل۔ بکری کا بچہ۔ سَهْمٌ طَمِيلٌ
خُونٌ سَهْمٌ لَتِ پَتِ تَمِيرٌ۔ خَبْرٌ طَمِيلٌ: بیلن سے
چوڑی کی ہوئی روٹی۔

الظَّمُولُ: بِدَكَارٍ جَوَاسِطِ فَعْلِ كِي پُرَوَانِ كرتے۔
الظَّمُولَةُ: بِدَكَارِيٍّ بِدَكَارِيٍّ۔
المِظْمَلَةُ: بیلن۔

طَمَانٌ طَمَانَةٌ وَ طَمَانٌ: طَهْرَةٌ: بِيْضَةٌ كَوَيْتِ
کرتا۔ جھکا۔ الشَّيْءُ: سَاكِنٌ كَرًا۔

تَطَامَنٌ: پست ہونا۔

إِطْمَانٌ إِطْمَانًا وَ طَمَانِيَّةً إِلَيْهِ: أَرَامٌ لِيَتَا
قَرَارٌ كِبْرًا۔ پست ہونا۔ کما جاتا ہے "إِطْمَانٌ عَمَّا
كَانَ يَفْعَلُهُ" یعنی چھوڑ دیا۔

الظَّمَنُ: سَاكِنٌ جَ طَمُونٌ۔

المِظْمَنِيُّ: سَاكِنٌ _____ مِّنْ الْأَرْضِ: نَزَمٌ
پست زمین۔

طَمًا يَنْظُمُو طَمْرًا اَو طَمِي يَنْظُمِي طَمْتًا
المَاءُ: يَأْتِي كَابِلِدٌ هَوَاتٍ اَو نَسْرٌ كَوَيْلِيْنُ _____
البَحْرُ: سَمَدٌ كَامْرٌ جَانًا _____ التَّبْتُ: بِنَاتٌ
کا طویل ہونا۔ بڑھنا۔

طَمَّتْ هَمَّتُهُ: بِهَمَّتِ بَلَدٌ هَوَاتٍ۔ طَمَّاهِ الهَمُّ اَو
الخَوْفُ: عَمٌّ يَخَوْفُ كَاتِبَتٌ هَوَاتٍ۔

طَلَّ (ض) طَلًّا وَ طَلِيْنًا وَ طَلَّنَ الذُّبَابُ اَو
التَّافُوسُ وَ شِبْهُ ذَلِكَ: جَهَنَّمَانَا۔ بَجَا۔ آواز دینا۔
وَ طَلَّنَ فُلَانٌ: مَرِنَا۔

أَطَنَّ: بَجَانَا۔ آواز کرنا۔ أَطَنَّ السَّقَا يَطْنُ كِي
کات دینا۔

الطَّنُّ: جِسْمٌ أَطَنَّانٌ وَ طَنَانٌ: بَأْسٌ كَاغْشَا
اور ایک بَأْسٌ طَنَّةٌ كَلَمَاتٌ هِيَ۔ الطَّنُّ وَ هَكَذَا هُوَ كِي
رُوِي كَابُورِجٍ۔

فُلَانٍ مِنْ مَالِهِ طَهْفَةٌ كَيْفَ حَضَرْتَا-

الطهف - بحور -

الطهف - بنہ -

زُبْدَةٌ طَهْفَةٌ - نرم کھن -

الطهفَةُ مِنَ الشَّيْءِ : كَلْبًا -

الطهاف - مِنَ السَّحَابِ : بَلَدٌ يَدُولُ -

الطهافَةُ - كَيْسٌ -

طَهْفٌ (ف) طَهْفًا : تَمْرٌ جَلَنًا -

طَهْلٌ وَ طَهْلٌ (ف س) طَهْلًا وَ طَهْلًا وَ

تَهْلًا : مِنَ الْمَاءِ : يَدْوِي بَدْوَارًا هُوَ - صِفَتٌ ظَاهِلٌ وَ

طَهْلٌ -

أَطَهَلْتُ الْأَرْضَ : تَهْوِي فِي كَمَا اسْ أَكَا -

الطهلة - تَهْوِي فِي كَمَا اسْ - بَقِيَّةُ شَيْءٍ

طَهْمٌ الشَّيْءُ : مَوْتًا هُوَ - مِنْهُ : نَفْرَتٌ

كُرْنَا -

تَهْمَمَ الطَّعَامُ : تَابَسَدَ كُرْنَا - كَمَا جَاءَتْ "فُلَانٌ"

يَتَهَمُّهُمُ عَنَّا" هَمٌّ وَ حَشْتٌ كُرْنَا -

المطهم - موتا - کزور - کھل اور خوش نما اور

اس سے ہے "جواد مطهم" یعنی خوبصورت -

عمدہ گھوڑا -

طهيا يظهو طهوا - سفر کرنا - جانا -

طهيا يظهو و يظهي طهوا او طهوا و طهيا و

طهيا - اللحم - پکانا یا بھونا -

أظهي اظهاؤا - پکانے یا بھونے میں ماہر ہونا -

الظهو - کام -

الظهي - تھکا -

الظهي - گناہ - پکا ہوا -

الظهي - سخت مار - پٹا بادل -

الظاهي - نا - یورچی - نانائی - بھوننے والا ج

طهاة و ظهي مؤنث طهية ج طواہ و

طاهيات -

الطهية - پکانے کا پیشہ -

الطهائة - دودھ یا خون کے اوپر کی باریک

جھلی -

الطهائة - بلند بادل -

طاة يظاء و يظوء طوة ا - آنا جانا - فی

الأرض : دُور تک نکل جانا -

نظاء تَ تظاؤون - الأسماع : بھوکا گامراں

ہوتا -

الطاءة - کچیز - چراگاہ میں دُور نکل جانا - کما جاتا

ہے "منا بالذار طوئ" یعنی گھریں کوئی نہیں -

الطوب - کئی اینٹ - واحد طوبتہ -

الطواب - خشک پڑ -

طاح يظوح طوخوا - حیران ہونا - ہلاکت کے

قریب ہونا - السهم : نشانہ سے خطا کرنا -

طوخوا : حیران کرنا - آوارہ پھرانا - طوخوا بہ :

خطرناک امور پر براگینتہ کرنا - نضاء آسمانی میں

پھینکانا - کما جاتا ہے "طوخت بہ طوايح الزمن"

یعنی زمانے کے حوادث نے اس کو پھینک دیا -

طوخوا تظويحوا و طويح تطويحها الشئ : ضائع

کرنا -

طواخوا مطاوخوا - بگڈا : ایک دوسرے پر

پھینکانا -

أطاحه - ہلاک کرنا - فاکرنا - أطاح الشئ - بال

گرا دینا -

تطوخوا - فی البلاد : سرگرداں ہونا اور ادھر

ادھر پھرنا - فی البئر : کنوئیں میں گرنے - کما جاتا ہے

"نأتم علي مطيحه - يتطوخوا" یعنی وہ ہوا میں آمد

رفت رکھتا ہے -

تطواخوا تطواخوا قوم فلانا بالأمرو او

بالضرب : آپس میں تنازع کرنا - تطواخت بہ

التؤي - فراق اور بعد نے اس کو پھینک دیا -

الطوخوا - دُور - بعید - کما جاتا ہے "بیتہ طوخوا"

دُور کی نیت -

الطواخوا - شدائد - مہلکات -

المطواخوا - ہلاکت کی جگہیں - واحد مطاخوا -

المطواخوا - لا شئ -

طواخوا يظوخوا طوخوا - قول یا فعل کی حسرت

گانا - صفت طوواخوا -

طواد يظوذا طوذا - ثابت رہنا -

طوذا و تظوذا فی البلاد : پھرنا - طوذا بہ ملک

جنگلوں میں جانے پر براگینتہ کرنا -

إنطاد - ہوا میں بلند ہونا -

الطوذا - مہ - پہاڑ - ٹیلہ - ج أطواد و طوذا -

المطادة - دُور دراز کا بیان -

المطواد - خطرناک مقامات -

المنطاد - بلند - غبارہ - ج منطائند -

طار يظوؤ طوؤا و طوؤا أنا بفلان : قریب

ہوتا -

الظور - اندازہ وحد - کما جاتا ہے "عذاظوؤه"

یعنی حد سے بڑھ گیا - "و جاوز ظوؤه" اندازہ

سے تجاوز کر گیا - بیت - حال - باری - کما جاتا ہے

"أتيتہ ظوؤا بعد ظوؤ" یعنی بار بار ج اظوؤا -

اور کما جاتا ہے "التاس اظوؤا" یعنی لوگ مختلف

قسم کے اور مختلف حالات کے ہیں -

الظور - پہاڑ - مکان کے سامنے کا گھن - وہ چیز

جو کسی چیز کے انداز پر ہو یا اس کے مقابل ہو -

الظوؤا - وہ چیز جو کسی چیز کے مقابل ہو - یا اس

کے انداز پر ہو - () و المظوؤا - مکان کے

سامنے کا گھن - کما جاتا ہے "هذه الذار علي

ظوؤا ذاری" یعنی اس کی دیوار میرے مکان کی

دیوار سے ملی ہوئی ہے -

الظوؤی و الظوؤاتی - وحشی پرندہ ہو یا

آدی - الظوؤی : انجمن - کما جاتا ہے "منا بالذار

ظوؤی او ظوؤاتی" یعنی کوئی نہیں -

ظارة المنخل - چھلنی کا گھیرا - اور یہ محرف

ہے صحیح "الإطار" ہے -

الطار و الطار عند العامة : دائرہ - دف - کما

جاتا ہے "لقی منه الأظورین" یعنی اس کو اس

سے بڑی مصیبت پہنچی - اور مبالغہ کے ارادہ سے

جمع سالم لایا جاتا ہے "بلغ فلان فی العلم

اظوؤیہ" فلاں علم کی دونوں حد اول و آخر یعنی

علم کی انتہا پہنچ گیا -

طاس يظوؤ طوؤسا - الوجه : چہرے کا

خوبصورت ہونا - الشئ : رودنا -

ظوؤسة - مزین کرنا - ظوؤس المنصوؤ : مور کی

شکل بنانا - ظوؤس بہ : لے جانا -

تظوؤس للحمامة : کبوتری کے سامنے پروں

کو پھیلانا - تظوؤست المزاة : آراستہ و مزین

ہوتا -

الظوؤس - چاند -

الظوؤس - ایک مسل دوکانام -

الطاس - پانی پینے کا برتن - یا لرج طاسات -

الظاؤؤس الطاؤؤس - مور - تصغیر ظوؤیس

<p>شئ: احاطہ کرنے والا۔ الطوق: گنے کا زیور۔ گلا۔ ہر احاطہ کرنے والا ج الطوق۔</p>	<p>طَافَ يَطْوِفُ طَوْفًا وَ طَوَافًا وَ طَوَافًا بِالْمَكَانِ وَ حَوْلَهُ: گھومنا۔ پکرگانا۔ _____ فِي الْبِلَادِ نَلِكٌ مِثْلُ بَجْرَا _____ بِه: الْغَيَابِ فِى التَّوْبِ: خواب میں نظر آنا۔</p>	<p>جَاطُوَسَ وَ طَوَّأَسَ طَوَّشَ: الرَّجُلُ: نال مثل کرنا _____ الذَّكْرُ: آنتہ کرنا۔</p>
<p>الطوق و الطاقہ۔ قدرت۔ طاقت۔ کہا جاتا ہے ”ہذا فِى طَوْفِي“ یعنی یہ میری طاقت میں ہے ”لَا تُحْمَلُنَا مَالًا طَاقَةً لَنَا“ یعنی ہمارے اوپر وہ نہ ڈال جس کی ہمارے اندر وسعت نہ ہو اور ہمارے لئے وہ دشوار ہو۔ دھاکے کی ایک لٹ۔ بالوں کا مٹھا۔ پھولوں کا گلدستہ۔ اور عام لوگ روشن دان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔</p>	<p>طَوْفَةٌ تَطْوِيفًا وَ تَطَوَّافًا: گھومنا۔ طَوَّفَ فِى الْبِلَادِ: نلک میں پھرنا۔</p>	<p>الطواشئ: آنتہ۔ خصی۔ ج طواشئہ۔ مولد ہے اور کہا گیا کہ لفظ عجیب ہے۔ طَاعَ يَطْعُجُ وَ يَطْعُجُ طَوْعًا يَطْعَانُ: فرماں بردار ہونا۔ صفت طائع ج طوع و طاعون کہا جاتا ہے ”أَمْرُهُ فَطَاعُ“ اسے حکم دیا اور اس نے اطاعت کی۔ اس موقع پر باب افعال ہی سے استعمال ہے مجرور سے نہیں۔ ”إِسْمَانُ لَا يَطْعُجُ بِكَذَا“ یعنی اس کی زبان تاجہداری نہیں کرتی ”وَ طَاعَ لَهُ الْمَرْبُوعُ“ یعنی چراگاہ اس کے لئے وسیع ہے۔</p>
<p>الطوقہ: کتنے دار کبوتر بول جس کی گردن طوق کے مانند ہو۔ طَائِنٌ يَطْوِينُ طَوْنًا: لبا ہونا _____ عَلَيْهِ۔ غائب ہونا۔ مخفی کرنا۔ احسان کرنا۔ طَوْنًا: لبا کرنا۔ طَوْنًا لَهُ: مسلت دینا _____ لِلدَّابَّةِ: جانور کی رستی ڈھیلی کر دینا۔ تَطْوِينٌ تَطْوِينًا: احسان کرنا۔ أَطَالَهُ وَ أَطْوَلَهُ إِطَالَةً وَ إِطْوَالًا: لبا کرنا۔ أَطَالَتِ الْمَرْأَةُ: لمبے لمبے بچے جنا۔ طَاوً لَكُمُطَاوَلَةٌ: نال مثل کرنا۔ لبا لیا یا فضل و بخشش میں غالب ہونا۔</p>	<p>طَوَّفَ وَ تَطَوَّفَ وَ اسْتَطَافَ اسْتَطَافَةً بِالشَّئِ وَ حَوْلَهُ: بہت پکرگانا۔ ”طَوَّفَ النَّاسُ أَوِ الْجَزَائِدَ“ آدمی یا ٹڈیوں کا زمین پر چھا جانا۔ اسْتَطَافَهُ: گھومنا۔ پکرگانا۔ أَطَافَ: بالشئ: نازل ہونا۔ احاطہ کر لینا۔ قَرِيبٌ هُوَا _____ عَلَيْهِ وَ بِهِ: رات کو آنا _____ عَلَيْهِ كَرِهُوا مَظْمُونًا۔ الطوف: پانی پر تیرنے والی چیز۔ گھٹی۔ الطوف: رات کو پھرا دینے والے چوکیدار۔ دِوَارِجَ أَطْوَافٍ۔</p>	<p>أَطَاعَهُ إِطَاعَةً وَ طَاعَةً: فرمانبردار ہونا۔ أَطَاعَ الشَّيْءَ: پھل پکنا۔ أَطَاعَ لَهُ الْمَرْعَى: وَ إِطَاعَةً: چراگاہ کا کشادہ ہونا۔ إِطَاعَةً أَنْطِطِيعًا: لہ: فرمانبردار ہونا۔ تَطَوَّعَ: بکلف اطاعت کرنا۔ تَطَوَّعَ فِى الْجُنْدِيَّةِ: لشکر میں رضا کارانہ شامل ہو جانا۔ بِالشئ: تبرع کرنا _____ بِالشئِ وَ لِلشئِ: بکلف استطاعت ظاہر کرنا _____ الشئِ: ارادہ کرنا۔ قصد کرنا۔</p>
<p>تَطَاوَلٌ: دیکھتے ہوئے گردن بلند کرنا _____ تَكْبِيرُ كَرًا: مخفی کرنا۔ ظلم کرنا۔ لبا لیا ظاہر کرنا _____ عَلَيْهِ الْعُمُرُ: بڑھنا۔ تَطَاوَلًا: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔</p>	<p>الطائف: بہت زیادہ طواف کرنے والا۔ الطوفان: سخت سیلاب۔ سخت بارش۔ رات کا سخت اندھیرا۔ موت تباہ کن۔ فِي كَمَلِ شَيْءٍ: ہر چیز کا زیادہ۔ الطائف: فاقہ چوکیدار۔</p>	<p>تَطَاوَعُ لِلْأَمْرِ: بکلف استطاعت ظاہر کرنا۔ اسْتَطَاعَ اسْتَطَاعَةً: الأَمْرُ: طاقت رکھنا اور حذف نام کے ساتھ اسْتَطَاعَ بِسَطِيعٍ جی کہا جاتا ہے۔ الطواعة: طوع کا اسم مصدر ہے۔ الطواعية: فرماں برداری۔</p>
<p>اسْتَطَاعَ اسْتَطَاعَةً: طویل ہونا _____ عَلَيْهِ: فضل و احسان کرنا۔ بلند ہو کر دیکھنا _____ عَلَى عِزِّهِ: بدنامی کی شہرت دینا۔ کہا جاتا ہے ”اسْتَطَاعُوا أَعْلَى الْقَوْمِ“ یعنی قوم نے جتنا گل کیا تھا اس سے زیادہ گل کیا۔</p>	<p>الطائف: مؤنت طائف۔ جماعت۔ گروہ۔ کھڑا کسی چیز کا وہ لوگ جو ایک مذہب یا رائے کے ہوں۔ ج طائفات طوائف۔ الطواف: بہت پھرنے والا۔ بہت پکرگانے والا۔ خاوم۔ گھٹی۔ گھٹی بنانے والا۔</p>	<p>الطواغية: طوع کا اسم مصدر ہے۔ الطواغية: فرماں برداری۔ الطاع و الطوع و الطيع: فرمانبردار۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ طَوْعٌ يَدِيكُ“ یعنی وہ تمہارا تابع ہے فَرَسٌ طَوْعُ الْعَيْنِ: یعنی نرم و تاجہداری گھوڑا۔ ”عَمَلُهُ طَوْعًا“ یعنی اس نے اس کام کو خوشی کیا۔</p>
<p>الطوق: فضل۔ بخشش۔ قدرت۔ غنا۔ الطوق: لبا لیا ج اطوال۔ الطويلة: عمر۔ کہا جاتا ہے ”أَطَالَ اللَّهُ طِيلَةَ“ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو طویل کرے۔ زیادہ بھر۔ الطوق: لمبے لمبے ٹانگوں کا ایک آبی پرندہ۔</p>	<p>المطاف: طواف کرنے کی جگہ۔ طَاقٌ يَطْوِقُ طَوْقًا وَ طَاقَةً وَ إِطَاقَ الشئِ: قادر ہونا۔ أَطَاقَ عَلَى الشئِ: قادر ہونا۔ طاقت رکھنا۔ طَوَّقَهُ الشئِ: کسی کام کی تکلیف دینا۔ طَوَّقَهُ الطوق: طوق پہنانا۔ کہا جاتا ہے ”طَوَّقَهُ بِالسَّبِيْفِ وَ غَيْرِهِ“ اس نے اسے تلوار یا تھوڑی دی۔ إَطْوَقَ وَ تَطَوَّقَ: طوق پہنانا۔ تَطَوَّقَتِ الْحَيَّةُ: کنڈلی مارنا۔</p>	<p>المطواع و المظواعة: فرمانبردار۔ المظواعة: رضا کارانہ جہاد میں شامل ہونے والے۔ المتطوع و المظوع: فرائض و واجبات کے علاوہ اعمال صالحہ کو بطور فضل ادا کرنے والا۔</p>
<p>الطويل و الطول و الطوال و الطيال: زمانہ بھر۔ الطائل و الطائفة: قدرت۔ فضل۔ غنا۔ کہا</p>	<p>الطاق: محراب۔ طاقت۔ ج طاقات و طيقان۔ الطاق: بغیر گریبان کے ایک قسم کا کپڑا _____ الطاق: پھاڑے نکلا ہوا بڑا بجز و طابق کُلُّ</p>	<p>الطواغية: فرماں برداری۔ الطاع و الطوع و الطيع: فرمانبردار۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ طَوْعٌ يَدِيكُ“ یعنی وہ تمہارا تابع ہے فَرَسٌ طَوْعُ الْعَيْنِ: یعنی نرم و تاجہداری گھوڑا۔ ”عَمَلُهُ طَوْعًا“ یعنی اس نے اس کام کو خوشی کیا۔ المطواع و المظواعة: فرمانبردار۔ المظواعة: رضا کارانہ جہاد میں شامل ہونے والے۔ المتطوع و المظوع: فرائض و واجبات کے علاوہ اعمال صالحہ کو بطور فضل ادا کرنے والا۔</p>

اس کو رضامندی سے کیا کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا۔

الطیاب بہت زیادہ پاکیزہ۔

الأطیاب اسم تفضیل ج أطایب مؤنث
ظؤنی ج ظؤنیات۔

الظؤنی رنک۔ سعادت۔ خیر۔

الطیّب پاکیزہ۔ اچھا۔ حلال۔ مؤنث ظئبۃ ج
ظئبۃ و ظؤنی۔ کہا جاتا ہے "کلمة طيبة"
پاکیزہ کلمہ۔ جس میں کوئی کمزور بات نہ ہو "بلدة
طیبة" ناموں شہر جس میں برکت زیادہ ہو۔

الأطیاب و المظایب۔ من الشئ: عمدہ
اشیاء

شربا مطیبة۔ عمدہ شراب جس کے پینے
سے دل خوش ہو۔

طاح یطیح طیحًا۔ بمعنی طاح یظفح
ظفحًا جس میں ہلاک ہونا۔ سرگرداں بھرتا۔

طیحة ہلاک کرنا۔ الشئ: ضائع کرنا۔
أطاحہ ہلاک کرنا۔

نطیح الشئ: بگھرتا۔

الطیحة۔ بتایا۔ کہا جاتا ہے "أصابنہم
طیحة" یعنی ایسے امور پیش آئے جس نے
تفریق کرادی۔ "وظفحنہم طیحات" یعنی ان
کو حوادث نے ہلاک کر دیا۔

طاح یطیح طیحًا۔ بڑے کام سے آلودہ ہونا۔
تکبر کرنا۔ باطل میں منہمک ہونا۔

الأمز: کام کو لگا کر دینا۔

طاح و طیحة۔ قبیح بات میں آلودہ کرنا۔ طیح
أضحایہ: گالی دینا۔

نطیح برائی سے آلودہ ہونا۔

الطیحة۔ قند (_____ والطاق و القلیخ)
بے برکت۔ یوقوف۔

طاز یطیز طیزًا و طیزرًا و طیزرًا و طیزرًا
پرندہ کا اڑنا۔ صیحة: مشہور ہونا۔

الشعر: بال لیے ہونا۔ بکڈا۔
سابق ہونا۔

إلی کڈا: دوڑنا۔ کہا جاتا ہے "طاز
طازرًا" وہ غھبناک ہوا۔ طیش میں آکر جلد بازی
کرنا۔

الطیحة۔ حاجت۔ ضمیر۔ نیت۔ بیعت کی نیت۔
گوشہ۔ چھت۔ کہا جاتا ہے "مضى لطيحة" یعنی
اپنی نیت پر کاربند ہوا "لقيضة بطيات العراق"
میں نے اس سے عراق کے اطراف میں ملاقات
کی۔

ظاوی۔ البظن: پکے بیٹ والا۔

الظایة۔ سطح۔ چھت۔ کجور ننگ کرنے کی جگہ۔
ریگستان میں بڑی پٹان۔ زمین کہ جس میں پتھر نہ
ہو۔ ج ظاہات۔

الظوی۔ گیہوں کا پورا۔ رات کا حصہ۔ ج
الأظواء (_____ والظویة) من بنا ہوا کنواں۔

الظویة: نیت۔ ضمیر۔
الأظواء: مڈی کی دم کی گرہ۔ واحد ظوی۔

المظوی۔ لپیٹ۔ ج مظاؤ۔ مظاوی الحیة:
سانپ کی کنڈلی۔

المظوی: جس پر کتا ہوا سوت لپیٹا جائے۔

طاب یطیب طیبًا و طابًا و طیبۃ و نطیبًا:
لذیذ ہونا۔ میٹھا ہونا۔ اچھا اور عمدہ ہونا طابت
النفس بکڈا: دل خوش ہونا۔ طاب عیشتہ:
خوش عیش ہونا۔ _____ عن الشئ نفیسا: خوشی
سے چھوڑ دینا۔ الشئ: اچھا کرنا۔ طابت
الأرض: گھاس اگانا۔

طیب الشئ: اچھا کرنا یا اچھا پانا۔ خوشبو لگانا۔
طیب خاطرہ: تسکین دینا۔ مطمئن کر دینا۔

أطاب إطابۃ الشئ: اچھا کرنا۔ شیریں کلائی
کرنا۔

أطیب الظیانا الشئ: اچھا پانا۔

طایبۃ مظایبۃ: نسی مذاق کرنا۔ کھیل کود کرنا۔
نطیب: خوشبو لگانا۔

استنطاب استنطابۃ القوم: شیریں پانی مانگنا۔
_____ واستنطیب استنطیبًا الشئ: اچھا پانا۔

الطاب لذیذ۔ مزہ دار۔

الطیب: خوشبو۔ ج أطیاب و طیبوب۔ حلال۔
کہا جاتا ہے "هذا طیب لک" یعنی یہ تمہارے
لئے حلال ہے۔ ہر چیز سے افضل۔

الطیبة: شراب۔ مدینہ منورہ کا لقب۔

الطیبة: حلال۔ طیبة الخمر: صاف شراب۔
کہا جاتا ہے "فعلت ذلک بطیبة" یعنی میں نے

جاتا ہے "ینتہم طابۃ" یعنی ان کے درمیان
عداوت ہے۔ ج "ظوایل هذا أممولا طابیل فیہ"
یہ ایسا امر ہے جس میں کوئی نفع نہیں "ما هو
بظایل او هو غیر طابیل" یعنی گھیا ہے۔ اور اس
میں مذکور مؤنث دونوں برابر ہیں۔

الظویل۔ لبا۔ ج طوال و طیال۔ مؤنث
طویلۃ ج طویلات۔ کہا جاتا ہے "فلان طویل
الباع" یعنی سخی ہے۔ "هو قصیر الباع" یعنی
بخیل ہے۔

الأظول۔ اسم تفضیل ج أظاول مؤنث
ظؤنی ج ظؤل۔ الظؤنی: بلند مرتبہ۔ و السنخ
الظؤل: سات بڑی بڑی سورتیں قرآن پاک

کی۔
الظوال۔ لبا۔ مؤنث ظوالۃ۔

الظوال: بہت زیادہ لبا۔

المظول۔ رشی۔ جانور کا راس ج مظاول۔
ظوی یظوی ظیًا۔ قہرے کو لپیٹنا

_____ ہ اللہ غفرہ: موت دینا۔ کہا جاتا ہے
"ظوی فلان و هو منشور" جبکہ کسی کا ذکر
حسن اور اثر جمیل باقی رہ جائے۔ ظوی
الحدیث: بات چھپانا۔ _____ کشفہ علی
الامر: پوشیدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "ظوی کشفہ
عنی" یعنی اس نے مجھ سے اعراض کیا اور

مفارقت اختیار کی۔ و ظوی البلاد: قطع
مسافت کرنا۔ البئر: پتھروں سے کنوئیں کا
من بنا۔ ظوی الرجل: بھوکے رہنے کا ارادہ
کرنا۔ السیر فلانًا: لاغر کرنا۔

ظوی (س) ظوی و اظوی۔ بھوکا ہونا۔
صفت طیان و علو و طاؤ۔ مؤنث طیان و طویۃ و
ظاویۃ۔

نظوت الحیة: سانپ کا کنڈلی مارنا۔
أظوی۔ القوم علیہ: اکھا ہونا) _____ و
أظوی لپیٹا جانا۔

الظوی: بھوک۔ منک۔
الظوی و الطوی: سخی ہونے کی چیز۔

الظی۔ لپیٹ۔ ضمن۔ کہا جاتا ہے "الظی فی
ظی قلبہ" یعنی گرا ہی اس کے دل کے ضمن میں
ہے۔

أَطَاشَ إِطَاشَةً. السَّهْمُ عَنِ الْغَرَضِ: تَمِرٌ كَانَتْ نَشَانَهُ سَهْمًا كَرِيحًا.

الطَّيَاشُ: بمعنى طابيش۔ جو صفت عمل کی وجہ سے ایک طرحے پر نہ تھے۔

الطَّيْنَانُ: سکی۔ اوچھاپن۔

طَاعَ يُطِيعُ طَيْعًا: بمعنى طاعَ يُطِيعُ طَوْعًا.

طَافَ يُطِيفُ طَيْفًا وَمَطَافًا الْخَيَْالُ: خواب میں خیال آنا۔

طَيَّفَ يُطَيِّفُ وَأَطَافَ إِطَافَةً وَتَطَيَّفَ تَطَيِّفًا: بست بھرنا۔

الطَّيْفُ: خیال جو خواب میں آئے۔ غضب۔ جنون۔

الطَّيْفُ: رات کی تاریکی۔

طَامَ يُطِمْ طَيْمًا: نیکو کار ہونا _____ اللہ فَلَآنَا عَلَى الْخَيْرِ: اللہ کا کسی کو خیر پر پیدا کرنا۔

الطَّيْمَاءُ: جبلت۔ طبیعت۔

طَانَ يُطِينُ طَيْنًا وَطَيْنَ الْخَائِظُ: دیوار کو گارے سے لپٹا۔ طَانَ الْكِتَابُ: خط پر مہر لگانا۔

طَانَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ: اللہ کا خیر پر پیدا کرنا۔

تَطَيَّنَ: گارے سے لپٹا جانا۔ گارے سے لٹھڑنا۔ لٹ پت ہونا۔

الطَّيْنُ وَالطَّيْنَةُ: گارا۔ مٹی اور چونہ یا ریت چونہ ملا ہوا الطَّيْنَةُ: گارے کا ایک حصہ۔ خلقت

جبلت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَأْبِسُ الطَّيْنَةَ" وہ سخت دل اور خشک مزاج ہے "لَهُ طَيْنَةٌ طَيِّبَةٌ" اس کی طبیعت نرم ہے۔

مَكَانٌ طَائِنٌ: بست گارے کی جگہ۔

الطَّيْنَانَةُ: گارا بنانے کا پیشہ۔

الطَّيْنَانُ: گارا بنانے والا۔

عَلَى زُوُوسَهْمِ الطَّيْرِ: یعنی وہ بیت کی وجہ سے بالکل ساکن اور خاموش ہے اور اصل اسکی یہ ہے کہ کوا اونٹ کے سر پر بیٹھا ہے اور چھڑی چتا ہے جس سے اونٹ کو آرام ملتا ہے اور وہ اس ڈر سے کہ کوا اڑ نہ جائے بالکل حرکت نہیں کرتا۔

"وَأَزْجُرُ أَحْقَاءَ طَيْرِكُمْ" ذور کرا پی خفت و غصہ کو۔ الطَّيْرَةُ الطَّيْرَةُ: بد شکون جس سے لیا جائے۔

الطَّيْرَةُ وَالطَّيْرُوزَةُ: طیس۔ ہکا پن۔ اوچھاپن۔ کہا جاتا ہے "إِيَّاكَ وَطَيْرَاتِ الشَّبَابِ" اپنے آپ کو جوانی کے طیس سے بچاؤ۔

الطَّوْفُورُ: طئیر کی تصویر۔ الطَّيْرَانُ: منتشر۔ ترازو کی زبان۔ سکہ تولنے کی ترازو۔

الطَّيَارُ وَالْمَطَارُ مِنَ الْخَيَْالِ: تیز خاطر چست چالاک گھوڑا۔

أَرْضٌ مُطَارٌ: کثرت سے پرندوں والی زمین۔ الطَّيَارَةُ بِمَوْنَتِ طَيْرٍ: ہوائی جہاز۔

الْمَطَارُ: اڑنے کی جگہ۔ الْمَطِيرُ: شہر۔ پھنا ہوا۔ ٹونا ہوا۔ ایک قسم کی چادر۔

الْمُسْتَطِيرُ: فاپھیلنے والا۔ کہا جاتا ہے "صَبِيحٌ مُسْتَطِيرٌ" یعنی صبح منتشر اور ایسا ہی کھلی بڑھاپا اور شر کے لئے مستعمل ہے۔

طَامَسَ يُطِمْسُ طَيْسًا الشَّيْءُ: زیادہ ہونا۔ الطَّيْسُ: عدد و کثیر مٹی۔ ہر وہ مخلوق جس کی نسل بست ہوتی ہو۔ جیسے مچھلی۔ چوٹی۔

طَاشَ يُطِيشُ طَيْشًا: اوچھا ہونا۔ عقل زائل ہونا _____ السَّهْمُ عَنِ الْغَرَضِ: تیر کا نشانہ سے خطا کرنا۔ صفت طابیش۔

طَيَّرَهُ وَطَيَّرِيهِ وَأَطَارَهُ إِطَارَةً وَطَايِرَهُ مُطَايِرَةً. أَثَرًا: أَطَارَ وَطَيَّرَ الْمَالَ تَقْسِيمًا كَرِهًا. طَيَّرَ نَوْمَهُ: نیند اڑا دینا۔

إِطَيَّرَ وَطَيَّرَ: بِالشَّيْءِ وَمِنْهُ: بِدَقَالِي لَيْتَا۔ تَطَايَرَ: مَترق ہونا _____ الشَّيْءُ: لپٹا ہونا۔

السَّحَابُ فِي السَّمَاءِ: بادل کا چاروں طرف گھبرانا۔

إِنطَارَ الشَّيْءُ: بھٹنا۔

إِسْتَنْطَارَ اسْتِنْطَارَةَ الشَّيْءِ: مَترق ہونا۔ مَترق ہونا _____ الْحَائِظُ: دیوار کا پھٹنا _____

السَّيْفُ: جلدی سے سوتلا۔ الطَّيْرُ: پرندے کو اڑانا۔


أَسْتَطِيرُ: خوفزدہ ہونا۔ جلدی سے لے جایا جانا _____ الصَّدْعُ فِي الْحَائِظِ: دیوار میں پھین کا ہر ہونا _____ الْفَرْسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔

الطَّائِرُ: فاپرندہ ج طئیر اور طئیر و اظہار جمع الجمع نام ایک ستارے کا جس کو سر طائر بھی کہتے ہیں جس سے اچھا یا برا شکون لیں۔ نصب۔

روزی۔ دماغ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَيْمُونُ الطَّائِرِ" وہ مبارک چہرے والا ہے۔ "سَبْرٌ عَلَى الطَّائِرِ الْمَيْمُونِ" مبارک شکون پر سفر کرو (مسافر کیلئے فعا ہے) "هُوَ سَاكِنُ الطَّائِرِ" یعنی حلیم صاحب وقار ہے "طَائِرُ طَائِرِ فَلَانٍ" جبکہ غضبناک ہو یا جلد بازی کرے۔

الطَّيْرُ: جمع طائر۔ اور کبھی واحد پر بھی بولا جاتا ہے اسم ہے طئیر کا۔ یعنی بد شکونی اور اسی سے عرب کا قول ہے "لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُ اللَّهِ" جیسا لا

أَمْرٌ إِلَّا أَمْرُ اللَّهِ۔ اور طئیر اللہ لا طئیرک جیسا صَبَّحَ اللَّهُ لَا صَبَاحَ لَكَ اور کہا جاتا ہے "كَأَنَّ



ظرب (س) ظربنا۔ پگڈا۔ چیکنا۔
الظرب، ابھرا ہوا تیز پتھر، چھوٹا ٹیلہ ج ظرباب
و اظرب۔

الظرب من الرجال: چھوٹے قد کا موٹا۔
الظربان والظرباء: بلی کے برابر خاکسری
رنگ کا سیاہی مائل بدبودار جانور ج ظربانی و
ظربین۔ کہا جاتا ہے "فَمَسَايِنُهُمُ الظَّرْبَانِ"
یعنی ان میں نا اتفاق ہو گئی۔

الظربى والظرباء: ظربان کا اسم جمع۔
الاظرب: نواجذ کے پیچھے کے چار دانت
اظرب اللجام: لگام کے لوہے کے اطراف کی
گرہ۔

ظرف (ک) ظرفا و ظرافة: خوش شکل
چالاک ہونا۔ ذہین ہونا۔ صفت طریف۔ ج
ظرفاء و ظراف و ظرف و ظرف و ظرفون
مونت ظرفة ج ظرفيات و ظرافف۔ ظرفة
ظرف تر ہونا۔ کہا جاتا ہے "ظرف فتنى
فظرف فتنه"

اظرف: طریف اولاد پیدا ہونا

المتاع: برتن ہونا۔

تظرف و تظارف: ظرف ہونا۔

استظرف: طریف طلب کرنا

ظرف سمجھنا۔ طریف پانا۔

الظرف دانائی۔ حذارت۔ فویقت۔ برتن۔ کہا

جاتا ہے "من الظرف جود المهدي"

بالظرف: پہلا ظرف، یعنی دانائی اور دوسرا

بمعنی برتن جس میں ہدیہ بھیجا جائے اور عوام

مشگیرہ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

الظرف: ہر وہ چیز جس میں کوئی دوسری چیز رہے

اور اسی سے ہے "ظرف الزمان والمكان"

الظنبى: ہرن نر یا مادہ ج ظنباء و اظنب و ظنبى و
ظنبیات۔

صحت جسم کے متعلق عرب کا قول ہے "بهذاء
الظنبى" یعنی اسے کوئی مرض نہیں اسلئے کہ ہرن
کو سوائے مرض الموت کے کوئی بیماری نہیں
ہوتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ "إذَا أَتَيْتَهُمْ فَارْبِضْ
فِي دَارِهِمْ ظَلِيصًا" یعنی جب تم کسی قوم کے پاس
جاؤ تو ہرن بن کر اقامت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ
جس طرح ہرن کو کوئی شک ہوتا ہے تو وہ نہیں
ٹھہرتا اسی طرح تم بھی شک ہونے پر چل دو۔

الظنبية: ہرنی۔ بکری۔ گائے۔ عورت اور اونٹنی
کی اندام نمائی۔ ج ظنباء و ظنبیات۔ الظنبية وادی
کاموڑ۔ ہرن کے بال دار چڑے کا چھوٹا ٹھیلہ۔

أرض مظبأة: بہت ہرن والی سرزمین۔

ظلة (ن) مظلة: دھار دار پتھر توڑا۔ الناقة:

اونٹنی کو دھاری دار پتھر سے ذبح کرنا۔

أظلة: دھار دار پتھروں کی زمین میں واقع ہونا۔

المكان: بہت دھار دار پتھروں والا
ہونا۔

الظور والظور والظورة: پتھر۔ دھار دار پتھر ج

ظوران و ظوران و ظورا و اظورة۔

الظوران: عتقان کے عکڑے جو زمانہ قدیم میں

تیزے اور بھالے اور کھانڈے وغیرہ کی شکل پر

بنائے جاتے تھے اور دیاسلائ کے بنانے سے پہلے

اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ "والظور الظورى
والظوراني" مذکور عتقان کے استعمال کا زمانہ۔

أرض ظور و مظورة: بہت عتقان والی

سرزمین۔ الظوريف: رہنمائی کا نشان۔ ج ظورا و

أظرة و ظوران۔

المظرة: عتقان۔ ج مظارة۔

ظأب (ن) ظأبا: نکاح کرنا۔ ظلم کرنا۔ شور کرنا
التبش: بکری کامیانا۔

ظأبة مظأبة: سال سے نکاح کرنا۔ کہا جاتا
ہے "تزووا بالمظأبة" یعنی دونوں ہم زلف
ہوئے۔

تظأبا: ہم زلف ہونا۔

الظأب: ہم۔ ہم زلف۔ ساز و من ج ظؤوب و
أظؤب۔

ظأز (ف) ظأزا و ظأزا و أظأزا و اظأزا
و مظأزة الناقة أو المزة على ولد غيها۔
مربان کرنا۔ فظأرت و اظأرت۔ مربان ہونا۔

اور صفت "ظؤوز و ظؤوزة ج اظأر و ظؤار۔

ظأزرة إلى كذا: مربان کرنا۔ ظأز علی

عدوه: حملہ کرنا۔ ظأزة و ظأوزة و اظأزة

علی كذا: مربان کرنا۔ ظأزة علی الأمر:

طلب کرنا یا مجبور کرنا۔ ظأزة الزجل: دایہ بنانا۔

ظأزة المزة: دایہ گری کرنا۔

إظأز لولده ظأزا: لڑکے کے لیے دایہ مقرر
کرنا۔

الظنر: غیر کے بچے پر مربانی کرنے والی۔ غیر

کے بچے کو روک دینے والی ج اظؤر و اظأر و

ظؤور و ظؤوزة و ظؤار۔ ظنر القصر: ستون۔

الظنرة: تھوٹی۔ کھبا۔

الظنورة دایہ والی پائی۔

ظأمة مظأمة و تظأمة ما تظأوما: ہم

زلف ہونا۔

الظأم: ہم زلف۔ ساز و من۔

الظبة: تلوار وغیرہ کی دھار ج ظبات و ظبى

و ظبون و ظبنون و اظب۔

أظبى المكان: بہت ہرنوں والی ہونا۔

اور کہا جاتا ہے "ہو نفی الظرف" یعنی وہ امین ہے "زائنتہ بظرفہ" میں نے اسی کو دیکھا ہے۔
الظرف والظرف۔ ظرف ج ظرفاء و ظرفون۔

المظرف۔ مفر۔ برتن میں جو چیز ہو۔ کہا جاتا ہے "بعتت بالترسائل مظرفة"۔
ظرفی (ض) ظرفیا۔ الماء پانی کا جاری ہونا۔
ظرفی (س) ظرفی۔ الغلام: لڑکے کا زیرک ہونا۔

إظرفوی اظرفیاء۔ بیت پھولنا۔

الظاری۔ خاک کا کھانے والا۔

الظرفوی۔ زیرک۔ عقل مند۔ ظرف۔

ظرفن (ف) ظفنا و ظفنا و ظفوناً و مظفنا۔
کوچ کرنا۔ کہا جاتا ہے "ظفوناً عن دہانہم" وہ لوگ اپنے ملکوں سے کوچ کر گئے۔

أظفن۔ کوچ کرنا۔ سفر کرنا۔

إظفن۔ الہودج: ہودے میں سوار ہونا۔

الظعان والظفون والظعام۔ ہودہ باندھنے کی رسی۔

الظفون والظفونة۔ بار بردار اوث۔ ہودہ اٹھانے والا اوث ج ظفن۔

الظفینة۔ ہودہ ج ظفان و ظفن و ظفن ج اظعان و ظفان۔ بیوی یا عورت جب تک ہودے میں رہے۔ یا مطلقاً عورت۔ کہا جاتا ہے "ہؤلاء ظفائنه" یہ اس کی عورتیں ہیں۔

المظعان۔ من الخیل والنوق: نرم چال چلنے والا گھوڑا یا اونٹنی۔

ظفرة (ض) ظفوا۔ چرے پر ناخن مارنا۔ ناخن توڑنا۔

ظفرو (س) ظفروا و اظفرو المظلوب و بہو و علیہ: کامیاب ہونا۔ غالب ہونا۔ ظفرت عنینہ: ناخن ہونا۔ آنکھ کی صفت ظفرة اور شخص کی مظفون۔

ظفرة: کامیابی کی دعا کرتا۔ ظفرو الشئ: کسی چیز میں ناخن چھونا۔ الفؤب: کپڑے پر خوشبو لگانا۔ الجفدة: کھال کو لٹنا۔ ظفرة

و اظفرة بعدوہ: دشمن پر کامیاب کرنا۔ فتح مند کرنا۔ اظفرو فلاناً: بندہ پر ناخن مارنا۔

تظافرو القوم: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

الظفرو والظفرو والظفرو۔ ناخن ج اظفار ج

أظافیر۔ کہا جاتا ہے "ماتقی فی الذار ظفرو" یعنی گھر میں کوئی باقی نہیں رہا "و زائنتہ بظفروہ" یعنی

میں نے اس کو دیکھا "قلتم اظفاره عن اذی الناس" یعنی لوگوں کو تکلیف پہنچانی کم کر دی یا

بالکل چھوڑ دیا "وکثر اظفاره فی فلان" یعنی غیبت کی۔ "ظفرو القظ و ظفرو النسر و ظفرو العقاب" نباتات کی تسمیہ۔

الظفرو والظفرو۔ ناخن (آنکھ کی ایک بیماری)

الظفرو۔ ظافر کی جمع ہے۔

الظفرو والظفیر والظفیر۔ ہر معاملہ میں کامیاب۔

الأظفرو۔ لمبے چوڑے ناخن والا۔

الأظفار۔ ناخن کے مشابہ ایک خوشبودار چیز۔

اس کا واحد نہیں۔ اظفار الفؤب: کپڑے کی ٹکٹیں۔ الأظفار: نرطار کے آگے کے ستارے۔

المظفرو والمظفرو۔ ہر معاملہ میں کامیاب۔ ظل (س) ظللاً و ظللوا۔ یفعل کذا: بیش

رہنا۔ تم کہہ سکتے ہو "ظللت و ظللت و ظللت" ظل ظلالة۔ الیوم: دن کا سایہ دار ہونا

الشئ: بسا ہونا۔

ظللة۔ سایہ ڈالنا۔ ظلل بالسنوط: دھکانے کے لیے حرکت دینا۔

أظل۔ الیوم: دن کا سایہ دار ہونا۔

سایہ ڈالنا۔ اپنی پناہ میں لینا۔ أظل الأمم فلاناً یحجج۔ جانا۔ قریب ہونا اور اسی سے ہے۔

أظلیک الشهر یعنی مینہ آگیا۔

تظلل۔ بالشجرة: درخت کے سایہ میں بیٹھنا۔

استظل بالظل: سایہ کے نیچے بیٹھنا۔

من الشئ: سایہ لینا۔ الکزم: انگوڑی

شاخ کا گتھ جانا۔ العیون: چشمے کے پانی کا

نیچے آنا جانا۔ الشمس: آفتاب کا بادل

میں چھپ جانا۔

الظل۔ سایہ ج ظلل و اظلال و ظلول۔

عزت۔ آرام و آسودگی۔ ظل من النیل: رات کا

حصہ یا اس کی سایہ۔ من القیظ: گرمی

کی شدت۔ من الفؤب: کپڑے کا رول۔

ظل الشبایہ او الشتاء: جوانی یا جاڑے کی ابتدا۔ کہا جاتا ہے "بقی عنیدی ظل النهار" وہ

میرے پاس تمام دن رہا اور یہ اس لیے کہ ظل کا بقا و زوال شے کے زوال و بقا پر موقوف ہے۔ "و

هو فی ظلہ" یعنی وہ اس کی پناہ میں ہے۔ "و

مسنیت علی ظلین او انتعلت ظلین" میں چلا اس حال میں کہ دوپہر ہو چکی تھی اس لیے میرا

سایہ نہیں تھا۔ "کان ذلک الیوم اقول من ظل الفنا" یعنی یہ دن نیزے کے سائے سے

بھی زیادہ طویل تھا۔ عرب نیزہ کے سائے کو بہت

زیادہ طویل سمجھتے تھے۔ "فلان یتاری ظل

زایہ" بولا کرتے تھے جب کوئی تکبر کرتا تھا۔

ملاعب ظلہ او مخاطف ظلہ ایک پرندہ کا نام ہے۔

الظلل۔ درخت کے نیچے کا پانی جس کو دھوپ نہ لگے۔

الظلة۔ ام مرقا۔ اقامت۔

الظلة۔ تنگ سائبان۔ ہر وہ کہ جس کی سردی و گرمی میں پناہ لیں۔ ہر سایہ دار ج ظلل و ظلل۔

الظلال و الظلال و الظلال۔ ہر

سایہ دار۔ ظلل البحر: سمندر کی موجیں۔ الظلیل۔ سایہ دار۔ بیش سایہ والا۔

الظلیلة۔ موش ظلیل۔ زیادہ درختوں کا بلوغ۔

دادی کے نیچے حصے۔ پانی کا شہ۔

المظلة و المظلة۔ جس سے سایہ لیا جائے۔

بڑا خیمہ۔ حمیری۔ ج مظال۔ عید المظال:

یہودیوں کی عید جس میں درخت کے پتوں سے

خیمے بناتے ہیں اور مصری آزادی کی یادگار میں ان خیموں میں چند روز قیام کرتے ہیں۔

یوم مظیل۔ سائے والوں۔

ظلم + ظلف

ظلم

ظما

۵۰۲

ظَلْفٌ كَسْتِيَانِ-

ظَلَعَ (ف) ظَلَعًا: أَدْنَتْ كَأَطْلَعِ: أَدْنَتْ كَأَطْلَعِ فِي لُغَتِنَا: مَفَتْ ظَالِغٌ. ظَلَعَتْ بِهَيْمِ الْأَرْضِ: زَمِنَ نَجْمٌ هُوَ-

الظَّلَعُ: عَيْبٌ. كَمَا جَاءَ فِي "إِزْبَعِ عَلِيَّ ظَلْمِيكَ" يَعْنِي تَمَّ ضَعِيفٌ هُوَ جَسَّ حَيْزِ كِي طَاعَتِ شَيْئٍ رَكْتَهُ هُوَ اسَّ سَ زَكْ جَاؤُ- "لَا يُزْبَعُ عَلِيَّ ظَلْمِيكَ مَنْ لَيْسَ يَحْزَنُ لِمَا أَمْرُكَ" يَعْنِي تَسْمَارِي شَانِ كَا إِجْتِمَاعِ وَبِي كَرَسَ كَابُجُ تَسْمَارِي غَمَّ خَوَارِ هُوَ كَا- "إِزْبَعِ عَلِيَّ ظَلْمِيكَ" أَوْ رِكْبِي هَمَزَ كَ سَاثَمَ "إِزْبَعًا" كَمَا جَاءَ فِي- يَعْنِي يَلْعَبُ إِلَهِي طَاعَتِ كُودِ رَسْتِ كُودِيَا تَتِي بِي تَكْلِيفِ أَهْمَاءِ جَشِي كِي طَاعَتِ رَكْتَهُ هُوَ- مَطْلَبُ يِي هَ كَ رَاثِي حِدَسَ آغَمَسَ مَتِ بُوْهُ أَوْ رَاثِي كُوتَا بِي وَعَا جَزِي كُودِي كُجُودِ رَاثِي عِيُوبِ كِي وَجْهَ سَ عَا مَوْشِ رُ هُوَ اسَّ لِي كَ سِي رُمِي پَرِ چَرَسَ وَالَا أَوْ رَكْتَا هُوَ تَا بَ وَهُوَ آفَ نَسَّ كَ سَاثَمَ نَزِي كَرَا بَ-

الظَّلَعُ: لُغَتَانِ-

الظَالِغُ: قَا- يَحْكُمُ وَالَا- مَتَمَّ (فَ كُودِ مَوْشِ) أَوْ مَوْشِ كَ لِي طَالِعًا عَمِي بُولَا جَا تَا بَ حَ ظَلَعَ- الظَّلَاغُ: جَاوُورِ كِي تَاكِ فِي بِيَا رِي جُو حَسْبِنَ سَ نَدَ هُوَ-

ظَلَفَةٌ (ن) ظَلَفًا: كَهْرٌ لَگْنَا- ظَلَفَ نَفْسُهُ عَنِ الشَّمْسِ: بَا زَرَكْنَا-

ظَلَفَ (ن) ظَلَفًا: الْقَوْمُ: قَوْمٌ كَ نَشَانِ قَدَمِ پَرِ چَنَا- ظَلَفَ وَظَالَفَ مِظَالِفَةً أَوْ قَوْمًا: قَدَمَ كَ نَشَانَاتِ كُودِ مَثَارَتَا-

ظَلَفَتْ (س) ظَلَفًا الْأَرْضُ: سَخَتْ هُوَ _____ مَعِينَةُ فَلَانٍ: تَكْلِيفٌ وَهُوَ هُوَ _____ نَفْسُهُ زَكْ جَا تَا-

ظَلَفَ الزُّجُلُ: سَخَتْ زَمِينَ فِي رُوكَا جَا تَا كَا كُودِي نَشَانِ قَدَمِ كَابُجُ نَدَ لَگْ سَكَا-

ظَلَفَةٌ: عَنِ كَذَا: دُورٌ كَرَا- ظَلَفَ عَلِيَّ كَذَا زِيَادَةً كَرَا-

أَطْلَفُهُ: دُورٌ كَرَا- إِظْلَفَ وَتَظْلَفَ: سَخَتْ چَرْمَلِي زَمِينَ فِي پَرِ زَا-

الظَّلْفُ: سَخَتْ هُوَ كَهْرٌ حَ ظَلُوفٌ وَ أَظْلَافٌ: كَمَا جَاءَ فِي "جَاءَ زَا عَلِيَّ ظَلْفِهِ" يَعْنِي اسَّ كَ نَشَانِ قَدَمِ پَرِ آفَ- الظَّلْفُ: حَاجَتِ وَ عَنِّي عِيَشَ- سَخَتْ زَمِينِي-

الظَّلْفُ: بَاطِلٌ- مَارِحٌ: بَ كَارٌ- كَمَا جَاءَ فِي "ذَهَبَ دَمُهُ ظَلْفًا وَظَلْفًا وَظَلْفِيًّا" يَعْنِي اسَّ كَا خُونِ بِيَا رُ كَرَا-

الظَّلْفُ وَالظَّلْفُ: پَانِي أَوْ رِكْبِي سَ بَلَنَدِ جُكِدِ زُجُلٌ ظَلْفُ النَّفْسِ: أَوْ صَابِ زَمِيمَةً سَ پَاكِ صَا ف-

أَرْضٌ ظَلْفَةٌ وَظَلْفَةٌ وَظَلْفَةٌ: سَخَتْ چَرْمَلِي زَمِينَ-

الظَّلِيفُ: بِدَحَالٍ- ذَلِيلٌ- سَخَتْ مَشْكَلِ كَامِ حَ ظَلْفَ ظَلْفَ-

زُجُلٌ ظَلِيفٌ النَّفْسِ: إِخْلَاقٌ رُزْبَلُ سَ پَاكِ صَا ف- كَمَا جَاءَ فِي "أَخَذَهُ بِظَلْفِهِ وَبِظَلْفِهِ وَبِظَلْفِيَّتِهِ وَبِظَلْفِيَّتِهِ" يَعْنِي سَبَّ كُجُ لَ لِيَا كُجُ نَشِينِ چُجُورَا-

الظَّلْفَاءُ: هُمَا رُ لِبَا چَرْمَلِي- الْأَظْلُوفَةُ: جَمِيزِ چَرْمَلِي زَمِينَ حَ أَظْلَافِيَّةٌ-

ظَلَمَ (ض) ظَلَمًا وَظَلَمًا وَمَظْلَمَةً: بَ مَوْجِ رَكْنَا _____ هَ: ظَلَمَ كَرَا _____ هَ حَقَّةٌ: گِشَا تَا _____ الْأَرْضُ: بَ مَوْجِ كُودِ نَا _____

الطَّرِيقُ: رَا سَتَهُ سَ مَتِ جَا تَا- كَمَا جَاءَ فِي "مَنَا ظَلَمَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" يَعْنِي تَمَّ كُودِ كَسِ چَرَسَ زِيَا كَرَنَ سَ مَتِ كَرَا- ظَلَمَ التَّجْعِيرُ: بِغَيْرِ كَسِي مَرَضِ أَوْ عِلَّتِ كَ ذِي كَرَا نَا أَوْ هَرُودِ كَامِ جَسَّ كُودِ قَوْتِ سَ پَلَعِ كَرَا جَا تَا اسَّ پَرِ ظَلَمِ كَا طَلَا قِ هُوَ تَا بَ-

ظَلِمَ (س) ظَلَمًا وَ أَظْلَمَ اللَّيْلُ: رَا تِ كَا تَارِيكِ هُوَ تَا- أَظْلَمَ اللَّهُ اللَّيْلُ: رَا تِ كُودِ تَارِيكِ كَرَا- أَظْلَمَ الزُّجُلُ: تَارِيكِ فِي دَاخِلِ هُوَ تَا- مَظْلُومٌ هُوَ تَا-

ظَلَمَةٌ: ظَلَمَ كِي طَرَفِ نَسَبِ كَرَا _____ هَ الْحَاكِمُ: ظَلَمَ كِي شَكَا يَتِ دُورِ كَرَا- كَمَا جَاءَ فِي "تَظْلَمُ فَلَانٌ إِلَى الْحَاكِمِ مِنْ فَلَانٍ فَظَلَمَهُ" يَعْنِي فَلَانُ نَ فَلَانِ كِي حَاكِمِ سَ ظَلَمَ كِي شَكَا يَتِ كِي

اس نے شکایت دُورِ کُودِ

تَظْلَمُ مِئَةً: ظَلَمَ كِي شَكَا يَتِ كَرَا _____ هَ حَقَّةٌ: گِشَا دِيَا _____ الزُّجُلُ: ظَلَمَ پَرِ مَبْرَكَرَا- كَمَا جَاءَ فِي "ظَلَمْتُهُ فَتَظْلَمُ" مِينَ نَ اسَّ پَرِ ظَلَمَ كَرَا اسَّ نَ مَبْرَكَرَا-

تَظَالِمُ الْقَوْمُ: بَعْضُ كَا بَعْضٍ پَرِ ظَلَمَ كَرَا- إِظْلَمُوا وَانْظَلَمُوا: ظَلَمَ بِرِوَا سَتِ كَرَا-

الظَّلْمُ: بَرَفٌ- وَرَا سَتِ كِي چَكِ حَ ظَلُومٌ- الظَّلْمُ: بَ مَوْجِ رَكْنَا- حَقَّ گِشَا تَا- ظَلَمَ:

الظَّلْمُ: بِدَنٍ- پَرَا زُ حَ ظَلُومٌ-

لَيْلٌ ظَلِيمٌ: مَسَّتِ تَارِيكِ رَا تِ-

الظَّلْمَةُ وَالظَّلْمَةُ: تَارِيكِ حَ ظَلَمَ وَ

ظَلَمَاتٌ وَظَلَمَاتٌ وَظَلَمَاتٌ-

الظَّلْمُ: قَمَرِي مِينَ كِي انبِيسِ 'مِيسِيسِ' اِكْبِيسِ رَا سَتِ-

الظَّلَامَةُ وَالْمَظْلَمَةُ: ظَلَمَ جُو تَمَّ أَهْمَاءُ- جُو چَرَسَ تَمَّ سَ طَلَا لَ لِي جَا تَا- حَ مَظَالِمٌ-

الظَّلَامُ: قَا- حَ ظَالِمُونَ وَظَلَمَةٌ وَظَلَامٌ- الظَّلَامُ وَالظَّلَمَاءُ: تَارِيكِ- اِبْتِدَائِي رَا تِ-

لَيْلَةٌ ظَلَمَاءُ: مَسَّتِ تَارِيكِ رَا تِ- أَوْ لَيْلٌ ظَلَمَاءُ عَمِي كَمَا جَاءَ فِي- أَوْ رِي شَا بَ-

الظَّلَامُ: ظَلَمَ- بَ اِنصَابِ- كَمَا جَاءَ فِي "نَظَرَ إِلَى ظَلَامًا" اسَّ نَ جُجُ كُودِ تَرَجَمِي نَظَرِ سَ وَرَكَا-

الظَّلَامُ وَالظَّلِيمُ وَالظَّلُومُ: مَسَّتِ زِيَادَةً ظَلَمَ كَرَنَ وَالَا-

الظَّلِيمُ: مَظْلُومٌ- نَزِ شَرِّ مَرِ حَ ظَلَمَانِ وَ ظَلَمَانٌ وَ أَظْلَمَةٌ-

الظَّلِيمَةُ: جُو تَمَّ سَ طَلَا لَ لِي جَا تَا-

أَمْرٌ مَظْلَامٌ: دُشَاوَرِو مَشْكَلِ كَامِ-

ظَلَمِيٌّ (س) ظَلَمًا وَظَلَمًا وَظَلَمَاءُ وَظَلَمَاءَةٌ سَخَتْ پِيَا سَا هُوَ تَا- اَلْبَيْتُ: مَشْتَا قِ هُوَ تَا-

صَفْتُ ذَكَرَ ظَلَمِيٌّ وَظَالِمِيٌّ وَظَلَمَانٌ أَوْ صَفْتُ مَوْشِ ظَلَمِيَّةٌ وَظَالِمِيَّةٌ وَظَلَمَائِيٌّ وَظَلَمَائِيَّةٌ- حَ ظَلَمَاءُ ذَكَرَ مَوْشِ دُونِ كَ لَ لِي-

ظَلَمًا أَوْ أَظْلَمًا- پِيَا سَا رَا- ذُ بَا كَرَا-

الظَّهْرُ: پیٹھ۔ بیٹھ کا مقابل ج اظْهَرُ و ظَهْوَرُ و ظَهْرَانُ۔ الظَّهْرُ: بار برداری کا اونٹ۔ مالِ کثیر۔ تیر کے پر کا چھوٹا پھلو۔ خشکی کا راست۔ کہا جاتا ہے "مَسَاوِفِ ظَهْرِ بَنِي ظَهْرٍ" یعنی خشکی کے راست میں چلے۔ سخت زمین۔ قَدْزُ ظَهْرٍ: پرانی بانڈی۔ کہا جاتا ہے "قَرَأَهُ عَلٰی ظَهْرِ قَلْبِهِ اَوْ عَلٰی ظَهْرِ لِسَانِهِ" یعنی حفظ بغیر کتاب کے ازبر پڑھا "وَ اعْتَظَاهُ عَنِ ظَهْرِيْدٍ" یعنی بغیر بدلے کے دیا۔ "وَ هُوَ نَازِلٌ بَيْنَ ظَهْرِيْنِهِمْ وَ ظَهْرَانِيْنِهِمْ وَ بَيْنَ اَظْهَرِهِمْ" وہ ان کے درمیان نازل ہوا۔ "رَأَيْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِي اللَّيْلِ" یعنی میں نے اس کو عشاء اور فجر کے درمیان دیکھا۔ "قَلْبٌ لَّهُ ظَهْرٌ مَّحْتَجٌّ" یعنی وہ اس کیلئے بدل گیا اور دشمنی کی "قَلْبُ الْأَمْرِ ظَهْرُ الْبَيْتِ" اس نے معاملہ میں خوب غور کیا۔ "قَتَلَهُ ظَهْرًا" اس نے اچانک مار ڈالا۔ "هُوَ يَأْكُلُ عَلٰی ظَهْرِيْدِيْنِ" یعنی میں اس پر خرچ کرتا ہوں۔ "لَا تَجْعَلْ حَاجَتِي بظَهْرِي" یعنی میری حاجت کو مت بھولا اور پیٹھ پیچھے مت ڈالو۔

الظَّهْرِي: اونٹ برائے ضرورت۔ پیٹھ پیچھے ڈالا ہوا۔ بھولا ہوا۔ ج ظَهْرَانِي۔
الظَّهْر: دن کے آدھے ہونے کا وقت ج اظْهَارُ۔
الظَّهْرَةُ: مدد۔ کہا جاتا ہے "جَعَلَ حَاجَتِي ظَهْرَتَهُ" میری حاجت کو پس پشت ڈال دیا اور بھول گیا۔
الظَّهْرُ قُو الظَّهْرَةُ: مددگار۔ الظَّهْرَةُ: کچھوا۔
الظَّهْرَةُ: گھر کا سامان، کہا جاتا ہے "جَاءَنَا بِظَهْرَتِهِ وَ بِظَهْرَتِهِ" ہمارے پاس مع اپنی قوم کے آیا۔
الظَّهْرِي: مددگار۔ مضبوط پیٹھ والا۔ پیار پیٹھ والا۔
الظَّهْرِيَّة: مؤنث ظہیر، دن کے آدھے ہونے کی حد۔ ج ظَهْرَانِي۔
الظَّهْرَانِي: تیر کے پر کا چھوٹا پھلو۔
الظَّهْرَانِيَّة: کپڑے کا ہرا۔
الظَّاهِرُ: نا۔ باطن کا ضد۔ ظَاهِرُ الْبَلَدِ: بیرون

الْأَخْلَقُ: خیال رکھے جانے کے لائق۔
نَفْسٌ ظَلْمَاءٌ: نفسِ شتم۔
مِظَنَّةُ الشَّيْءِ: جگہ جہاں چیز کے موجود ہونے کا گمان ہو۔ کہا جاتا ہے "فَلَا نَ مِظَنَّةَ الْخَيْرِ وَ فِئِ الْمَسْأَلَةِ مِظَنَّةٌ اِغْتِرَاضِي" ج مِظَانٌ۔
الظَّنْبُوبُ: قدم کی جانب پندلی کی بڑی کانکارہ ج قَنْبَابِيْبٌ۔ کہا جاتا ہے "قَرَعَ قَنْبَابِيْبُ الْأَمْرِ" یعنی آسان کر دیا۔ "قَرَعَ لِهَذَا الْأَمْرِ ظَنْبُوْبَهُ وَ سَاقَهُ" یعنی کوشش کی اور کو تابی نہیں کی۔
ظَهْرٌ (ف) ظَهْوَرًا: ظاہر ہونا۔ باہر آنا۔ ظَهْرَةٌ ظَهْرًا: پیٹھ پر مارنا۔ ظَهْرٌ بِعِلْمِهِ: فخر کرنا۔
الشَّيْءُ وَ يَبِي: پیٹھ پیچھے ڈال دینا۔ النَّوْبُ: ابرہ بنانا (ظَهْرًا اَوْ ظَهْوَرًا) الْبَيْتُ: مکان پر چرنا۔ عَلَيْهِ: اعانت کرنا۔
يُقْلِدُ وَ عَلَيْهِ: غالب ہونا۔ عَلَى السَّيْرِ: بھید پر مطلع ہونا۔ فَلَا نِي حَاجَتِي: حاجت کو ہلکا سمجھنا اور پیٹھ پیچھے ڈالنا۔
ظَهْرٌ (ن) ظَهْرًا: مضبوط پیٹھ والا ہونا۔
ظَهْرٌ (س) ظَهْرًا: پیٹھ میں شکایت ہونا۔ صفت ظہر۔
أظْهَرُ: الشَّيْءُ: ظاہر کرنا۔ پیٹھ پیچھے ڈالنا۔
الْكِتَابُ: ازبر پڑھنا۔ اظْهَرُهُ عَلٰی عَدُوِّي: دشمن پر غالب کرنا۔ هُ عَلٰی السَّيْرِ: بھید پر مطلع کرنا۔ يَبِي: مرتبہ بڑھانا (ظَهْرٌ) دوسرے میں چلنا۔ دوسرے میں داخل ہونا۔
ظَهْرٌ وَاظْهَرُ حَاجَتِي: ضرورت کو پیٹھ پیچھے ڈال دینا۔ عَافِلٌ ہونا۔
ظَاهِرَةٌ وَاظْهَرَةٌ وَ ظَهْرَانِيَّةٌ: مددگار ظاہر، بَيْنَ النَّوْبِيْنِ: اوپر نیچے کپڑے پھینا۔ تَظَاهَرُ: ظاہر ہونا۔
بِالشَّيْءِ: ظاہر کرنا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے ڈور ہونا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔
اِسْتَظْهَرُ: احتیاط کرنا۔ الشَّيْءُ: بچانے کیلئے پیٹھ پیچھے کرنا۔ يَبِي: مدد طلب کرنا۔ لَهْ: تیار کرنا۔ عَلَيْهِ: چرھنا۔
عَافِلٌ ہونا۔ الدَّرْسُ: سبق کو زبانی پڑھنا۔

تَظَلَّمَ: پیاس پر صبر کرنا۔
الظِّمَّةُ: پیاس۔ ج اظْمَاءٌ۔
الظَّمَاوُ الظَّمَاءُ: پیاس۔
المِظْمَاءُ: سخت پیاس والا۔
المِظْمَاءُ: پیاس لگانے والی جگہ۔
ظَمِيٌّ يَظْمِي ظَمِيٌّ: گندم گوں ہونا۔ صفت اظْمِيٌّ۔ مؤنث ظَمِيَاءٌ ج ظَمِيٌّ۔ شَفَّةٌ ظَمِيَاءٌ: پڑمرہ گندمی ہونٹ۔ عَيْنٌ ظَمِيَاءٌ: باریک پلکوں والی آنکھ۔ لَفَّةٌ ظَمِيَاءٌ: کم خون والے سوڑھے۔ سَاقٌ ظَمِيَاءٌ: کم گوشت والی پندلی۔ اظْمِيَاءٌ: سیاہ اونٹنی۔
المِظْمِيُّ: وہ کھیت جس کی سیرابی صرف بارش کے پانی سے ہو۔
ظَلَمٌ (ن) ظَلَمًا: جانا اور یقین کرنا اور اسی سے ہے "ظَلَمُوا اَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ" یعنی یقین کیا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی جانے پناہ نہیں گمراہی کی طرف۔ اور گمان کے معنی میں بھی مستعمل ہے جیسے "ظَلَمْتُ زَيْدًا صَاحِبَ كِتَابِكُ"۔
ظَلَمَةٌ وَ اظْلَمَةٌ وَ اظْلَمَةٌ بِكَذَا: تہمت لگانا۔ اظْلَمَةُ الشَّيْءِ: وہ تم میں ڈالنا۔ اظْلَمٌ فِيْهِ النَّاسُ: تہمت کیلئے پیش کرنا۔
ظَلَمٌ وَ تَطْلَمِيٌّ: گمان کرنا۔
الظَّنُّ: گمان۔ اور شک و یقین کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ ج ظَنُّوْنٌ ج اظْأَانِيْنِ (خلاف قیاس)
الظَّنَّةُ: تہمت۔ کہا جاتا ہے "فِيْهِ ظَنَّةٌ" اس میں تہمت ہے۔ تھوڑی چیز ج ظَنَّ و ظَنَانِيْنِ۔
الظَّنَانَةُ: تہمت۔
الظَّنَّانُ وَ الظَّنُّوْنُ: بد گمان۔ رَجُلٌ ظَنُّوْنٌ: کم حیلہ۔ کزور۔ جس پر بھروسہ نہ کیا جائے پِنُوْ ظَنُّوْنٌ: کنواں جس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ پالی ہے یا نہیں۔ ذِيْنُ ظَنُّوْنٍ: قرض جس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وصول ہوگا یا نہیں۔ رَجُلٌ ظَنُّوْنٌ: جس کی خبروں پر بھروسہ نہ کیا جائے۔
الظَّنِيْنِ: شتم۔ بدگمانی کی وجہ سے جس سے دشمنی کی جائے۔ بے برکت۔ ج اظْمَاءٌ۔

<p>الظئبة۔ مردار جب سڑنا شروع ہو۔ الظئ و الظئان۔ شد۔ الظئان: جنگلی چنبلی۔ ایک قسم کی نباتات جس کے پتوں سے کھال کو دیباغت دی جاتی ہے۔ المظئبة و المظئوة من الازاجئی: جنگلی چنبلی والی زمین۔ حظئاة تطئئنا: ہمکین کرنا۔ الظئاة: بیوقوف۔</p>	<p>المظئهر۔ قوی بیٹھ والا۔ الظئوة۔ بیوقوف۔ ظافه یظوفه و یظافه ظوفه۔ دھکارنا۔ دفع کرنا۔ ظوف۔ الرقیة و ظافها۔ گردن کی کھال۔ کہا جاتا ہے ”تَرَکْتُهُ بِظُوفِ رَقَبَتِهِ أَوْ بِظَافِهَا“ یعنی میں نے اُس کو تھما چھوڑ دیا۔ أظوی۔ بیوقوف۔</p>	<p>شہر۔ کہا جاتا ہے ”قَرَأَهُ ظَاهِرًا“ یعنی حفظ بغیر کتاب کے پڑھا۔ الظاهرة۔ مؤنث ظاہر۔ من العئون: آہری ہوئی آنکھ ظاہرات و ظواہر۔ ظاهرة الزجلی: کنبہ، قبیلہ۔ ظاهرة العئیل: پھاڑکی چوٹی الظواہر: بلند زمینیں۔ المظئهر۔ جائے ظہور۔ المظئهر۔ قا۔ سواری والا۔</p>
---	--	--

کیت و کیفیت در انہم کو دیکھنا) عُبُو اور
عُبُوۃ (النسیب) طے کرنا۔ مرنا۔ گزرتا۔
التہور والوادی پار کرنا عبر بہ الماء: گزر جانا
عُبُو اور عبَاۃ، الرُّوْیَا خواب کی تعبیر
بیان کرنا۔
عُبُو (س) عُبُوۃ۔ آنسو بہانا۔ صفت مذکر و
مؤنث عَابِر۔ عبرت حاصل کرنا۔ اور اسی سے
عرب کا قول ہے "اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَنْعَبِرُ
الدُّنْيَا وَلَا يَنْعَبِرُهَا" اے اللہ! ہم کو ان لوگوں
میں سے بنا جو دنیا سے عبرت حاصل کرتے ہیں
اور بغیر تیری رضامندی حاصل کئے جلدی مرتے
نہیں۔

عُبُوۃ۔ الرُّوْیَا: خواب کی تعبیر بیان کرنا
عَمَّا فِي نَفْسِهِ: دل کی بات ظاہر کرنا
عَنْ كَذَا يَوْمًا: عُبُوۃ بِالْمَاءِ:
پار کرنا۔ الدَّرَاهِمُ درانہم کی کیت و
کیفیت دیکھنا۔ یہ: ہلاک کرنا۔
بِہِ الْأَمْرِ: ہوشیار ہونا۔

اعْتَبِرَ الشَّيْءَ: آرزو کرنا۔ غور کرنا۔ مَنَّة
توجہ کرنا۔ یہ: بصیحت حاصل کرنا۔
الرَّجُلُ: اعتبار کرنا۔
اسْتَعْتَبِرَ: آنسو بہانا۔ تمکین ہونا۔
الدَّرَاهِمُ: کیت و کیفیت معلوم کرنا۔ اسْتَعْتَبِرَ
الرُّوْیَا أَوْ الدَّرَاهِمُ: تعبیر بیان کرنا۔ درانہم کی
کیفیت و کیت پوچھنا۔ العَيْنُ: آنکھ کا
دُور بآنا۔

العَابِرُ: فہم گزرنے والا۔ کسی چیز میں غور کرنے
والا۔ عَابِرُونَ وَعَبَارٌ وَعَبْرَةٌ مَوْتٌ عَابِرَةٌ
کما جاتا ہے "ذَخَلَ عَابِرٌ سَبِيلِي" بغیر ٹھہرے
ہوئے گزرتے ہوئے داخل ہوا۔

العَبَّارُ: مبالغہ عَابِر۔ خواب کی تعبیر بتانے والا۔
جَمَلٌ عَبَّارٌ: چلنے میں قوی اونٹ۔
العَبْرُ والعَبْرُ: مِنَ الْوَادِي: کوند۔ کنارہ۔
مجلس۔ عُبُو وعَبْر: بہت آدمیوں والی مجلس۔
بِتَاتٍ عَبْرٌ: جھوٹ۔ باطل۔ أَبْوَتَاتٍ عَبْرٌ:
جھوٹا۔

العَبْرُ: ہر چیز کی کثرت۔ انسان کی ہی کثرت پر
استعمال ہوتا ہے۔ نیز چلنے والا بادل۔ عورت جس

کا پتہ کھو گیا ہو۔ عَقَاب (____) والعَبْرُ آنکھ کی
گرمی جو آنسو بہاتی ہے۔

العَبْرُ والعَبْرُ والعَبْرُ: قوی مضبوط۔ (مذکر
مؤنث واحد جمع) کما جاتا ہے "فَلَا يَعْْبُرُ لِكُلِّ
عَمَلٍ" یعنی ہر عمل کے لائق ہے "جَمَالٌ عَبْرٌ
أَسْفَارٌ" چلنے میں قوی اونٹ۔

العَبْرَةُ: مہر کا اسم مرہ۔ آنسو جو عبور و عبور ات۔
غم۔
العَبْرَةُ: بصیحت۔ کما جاتا ہے "لَكَ بَفْلَانٍ
عَبْرَةٌ" احوال و کیفیات میں غور و فکر توجہ، اصل
جو ظاہر کا مرجع ہو۔

العَبَاۃ: اسم ہے عبُو کا۔ معنی بردالت کرنے
والے الفاظ۔ کما جاتا ہے "فَلَا يَحْسُنُ الْعَبَاۃَ"
فلاں اچھا بیان کرنے والا ہے۔ "هَذَا عَبَاۃٌ عَنْ
كَذَا" یہ اس کے ہم معنی ہے۔

العَبْرُ مؤنث عَبْرَةٌ۔ العَبْرَانُ۔ مؤنث عَبْرَتِي
ج عَبْرَتِي۔ آنسو بہانے والا۔ تمکین۔
العَبْرِي والعَبْرَانِي۔ یہودی۔ یہودیوں کی
زبان۔

العَبْرَانِيَّة۔ یہودیوں کی زبان۔ یہودیت۔
العَبْرِيُّ: ایک مرکب خوشبو کا نام۔ سَهْمٌ عَبْرِيٌّ:
بہت پردوں والا تہ۔ قَوْمٌ عَبْرِيٌّ: بہت لوگ۔
المُعْبَرُ: گزر گاہ۔ گھاٹ۔
المُعْبَرُ والمُعْبَرَةُ: دریا عبور کرنے کا ذریعہ۔
المُعْبَرُ: بہت بالوں یا اردوں والا۔ غَلَامٌ مُعْبَرٌ:
لڑکا جس کو احتلام ہونے لگے اور ابھی تک ختنہ نہ
ہوا ہو۔

العَبْرُ: بکری کا پتہ ج عَابِر۔ غیر مٹھون ج عَبْر۔
العَبْرِيُّ: چیلے کا پتہ۔ تیدو۔ کا پتہ
عَبْسٌ (ض) عَبْسًا وَعَبْسًا: ترش روئی کرنا۔
توری چڑھانا۔ جیس جیس ہوتا (____) وَعَبْسٌ
الرُّوْیَا ترش رو ہونا۔ عَبْسٌ وَجْهٌ: ترش روئی
کرنا۔

عَبْسٌ (س) عَبْسًا الْعَبْرِيُّ: اونٹ کی دم پر بیٹھی
کا خشک ہونا۔ الرَّسْخُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهَا:
میل خشک ہونا۔
أَعْبَسَ الرَّجُلُ: میلا ہونا۔ الإِبِلُ: دم
پر خشک بیٹھی والا ہونا۔ الفُؤَبُ: میل

خشک ہونا۔

نَعْبَسَ: ترش رو ہونا۔

العَبْسُ: دم۔ اونٹ کی دم پر خشک بیٹھی۔

العَبُوسُ والعَبَّاسُ: بہت ترش رو۔ شِيرَ يَوْمٌ
عَبُوسٌ: سخت دن۔

عَبَسَ (ن) عَبَسًا۔ الشُّيْءُ: اصلاح کرنا۔
درست کرنا۔

العَبْسُ: درستی۔ صلاح (____) والعَبْسُ
والعَبْسَةُ: عمارت۔ کندہ بنی۔
العَبْسَةُ والعَبْسَةُ: غفلت۔

عَبَطَ (ض) عَبَطًا۔ الذَّبِيحَةُ: موٹے تازے

کو ذبح کرنا۔ الضَّرْعُ: تھن کو خون آلود

کر دینا۔ الثَّرَابُ: مٹی اُزٹانا۔

الرُّجُلُ: غیبت کرنا۔ الذَّوَاهِي فَلَانًا:

یہ کسی سبب کے مصیبت پہنچنا۔

الكَذِبُ: بلا کسی ہذر کے جھوٹ گھڑنا۔

عِزْرَتُهُ: گالی دینا۔ بے آبرو کرنا۔ عَطَبَتِ الرِّيحُ

وَجْهَ الْأَرْضِ: سطح زمین کا صاف کر دینا۔

الشُّيْءُ: پھٹ جانا۔

أَعْبَطَةُ الْمَوْتُ: صحت و جوانی میں موت

واقع ہونا۔

إِعْتَبَطَ: الذَّبِيحَةُ: موٹا تازہ ذبح کرنا

عُ الْمَوْتُ: صحت و جوانی میں موت

واقع ہونا۔ الرَّجُلُ: ظلم قتل کرنا

العِزْرُ: گالی دینا۔ بے آبرو کرنا

الرُّجُلُ: بخارا آنا۔ زخمی کیا جانا۔

العَبْطُ: سفید جھوٹ۔ خالص افزا۔ کما جاتا ہے

مات عَبْطَةً: یعنی صحیح تندرست جوان مر گیا۔

العَبْطُ: تندرست موٹا تازہ ذبح کیا ہوا جانور۔

ج عَبْطٌ وَعَبَّاطٌ: اَدِيمٌ عَبِيطٌ: پچھا ہوا اجزا۔ دَمٌ

عَبِيطٌ: تازہ خون۔

الإِعْبَاطُ: مصدر إِعْبَطَ۔ الحَدْفُ

الإِعْبَاطِيُّ عِنْدَ الشُّحَاةِ: وہ حذف جو بغیر کسی

علت کے ہو۔

العَوْبُطُ: مصیبت۔ سندر رکاوہ حصہ جہاں پانی

زیادہ ہو۔ ج عَوْبُطٌ۔

عَبِيعَ: الحَبِيشُ: لنگر کا نکست کھانا۔

نَعْبَقَ: الشُّيْءُ: پورے کو ہلاک و برباد کر

عَقَبَ (ن ض) عَقَبًا وَعُقْبَانًا وَمُعْتَبًا وَمُعْتَبَةً
وَمُعْتَبَةً عَلَيْهِ: کسی فعل پر سرزنش کرنا۔ خطلی
ظاہر کرنا۔

(_____ عَقَبًا وَعُقْبَانًا وَعُقْبَانِي) فَلَانًا:
ملامت کرنا (_____ عَقَبًا وَعُقْبَانًا وَمُعْتَبًا)
ایک پاؤں پر کودنا (_____ أَلْبَعِيثُ: تین ٹانگوں
پر چلنا) عَقْبَانًا، الْبِزْقِي: بھل کا لگا کر چلنا
_____ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ وَمِنْ قَوْلِي أَلِي
قَوْلِي: ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک بات سے
دوسری بات کی طرف منتقل ہونا۔

عَقَبَ الزَّجْلُ: دیر کرنا _____ النَّهَابُ:
دروازے کی دہلیز بنانا۔ عَقَابَةٌ عَقَابًا وَمُعَاتَبَةٌ
عَلَى كَذَا: ملامت کرنا۔ غصہ کرنا۔ ناز سے
خطاب کرنا۔

أَعْتَبَهُ: سبب ناراضی و ملامت کو ذور کرنا۔
رضامند کرنا۔ أَعْتَبَ عَفْءًا: پھر جانا۔

تَعَتَّبَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر ناراضی کا
اظہار کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَتَعَتَّبُ بَشِيئًا
وَلَا يَتَعَتَّبُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ" یعنی اس پر عیب
نہیں لگایا جاتا۔ تَعَتَّبَ بَابَ فَلَانٍ: کسی کی
چوکتھ کو پھلانا۔ کسی کی چوکتھ پر زاریا۔

تَعَاتَبَ الْوَجُلَانُ: ایک دوسرے پر ناراضی
کا اظہار کرنا۔ ناز سے ایک دوسرے سے گفتگو
کرنا۔

إِعْتَبَبَ: ممانہ روی اختیار کرنا۔ الظَّرِيقِي:
آسان راستہ چھوڑ کر دشوار اختیار کرنا _____
مِنْهُ وَعَفْءًا: پھر جانا۔

إِسْتَعْتَبَهُ: رضامند کرنا۔ رضامندی طلب کرنا۔
کہا جاتا ہے "إِسْتَعْتَبْتُهُ فَأَعْتَبَنِي" اس سے
میں نے رضامندی طلب کی اس نے مجھے
رضامند کر دیا اور اس سے ہے "مَتَابَعِدُ الْقَوَاتِ
مُسْتَعْتَبَتٌ" یعنی موت کے بعد طلب رضامندی
کا موقع نہیں۔

الْعُقْبُ: لنگڑاہٹ۔ کہا جاتا ہے "بِوَجْهِهِ
عُقْبٌ" اس کے پیر میں لنگڑاہٹ ہے۔

الْوَعْبُ: بہت عتاب کرنے والا۔

الْعَقَبُ: اگلی شہادت اور بیچ والی انگلی یا بیچ
والی اور پھٹکیا کے پاس والی انگلی کا درمیان۔

الْأَعْبَلُ: سخت قسم کا پتھر جو سفید، سرخ اور کالا
ہوتا ہے جِ عَابِلَةٌ۔

الْعَيْبَالُ: جنگلی گلاب۔

الْعِبْلَاءُ: چٹان۔ بقول بعض سفید چٹان ج
عبدال۔

الْمِعْبَلَةُ: تیر کا لبا پوزا پھل ج معابیل۔

الْعَبْوَلُ: موت۔

عَبِمَ (ك) عَبَامَةً وَعَبَامًا: بیوقوف ہونا۔

مَاءٌ عَبَامٌ: بہت پانی۔

الْعَبَامُ: سُت تھکا ہوا۔ موٹا۔ بیوقوف۔ بے
عقل۔ بے ادب۔ بزدل۔ جِ عَعِيمٌ۔

الْعَبَامَاءُ: بیوقوف۔

عَبِينُ (ن) عَبِينًا: موٹا اور کھرورا ہونا۔ صفت

عَبِيْنٌ وَعَبِيْنِي: مؤنث عَبِيْنَةٌ جِ عَبِيْنِيَاتُ۔

الْعَبْهَرُ: زرخس۔ چنبیلی (_____ وَالْعَبَاهِرُ)
بھڑے ہوئے جسم والا۔ لبا۔

عَبِيْلَةٌ: عتاب کرنا۔ عَبِيْلٌ الْإِبِلُ: اونٹ کو
آزاد چھوڑنا۔

الْعَبَاهِلُ: مِنَ الْإِبِلِ: آزاد چھوٹے ہوئے
اونٹ۔

الْعَبَاهِلَةُ: یمن کے بادشاہ جو اسلامی حکومت
کے زمانے میں اپنی سلطنت پر چھوڑ دیے گئے تھے۔
واحد عَبِيْلٌ۔

عَبَا يَعْبُوْنَ عَبْوًا: چرے کا ذک ابھنا _____

الْمَتَاعُ: تیار کرنا۔

جَارِيَةٌ عَبَابَةٌ: خوبصورت لڑکی۔

عَبِيٌّ تَعْبِيَّةٌ، الْجَبِيْشُ: لشکر کو ترتیب دینا۔

تَعَبِيٌّ: تیار ہونا۔

الْعَبِيِيُّ: حصہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا عَيْبُكَ مِنْ
الْجَزْوِيِّ" زرع کے ہوئے (اونٹ یا کبری) سے یہ
تمہارا حصہ ہے۔

زَجَلٌ عَبَاءٌ وَعَبَاءٌ: بھاری جسم والا اکھڑ۔

الْعَبَابِيَّةُ: چغڑ۔ جِ عَبَابِيَاتُ وَعَبِيْبِيٌّ۔

عَفَّةٌ (ن) عَفًّا بِالْمَسْأَلَةِ: سوال کرنے میں
اصرار کرنا _____ هَبَالُ الْكَلَامِ: جھڑکی دینا۔

عَاتَةٌ: جھگڑا کرنا۔ ہار بار کلام کو لوٹانا۔

تَعَتَّتَ لِي فِي كَلَامِهِ: ہار بار کلام کو دہرانا۔

الْعَفْتُ: کلام وغیر میں سختی۔

دینا۔
الْعَضْبُ: کشادہ کپڑا۔ اونٹ کے بالوں کا نرم
کسل (_____ وَالْعُقْبَابُ) بلند قدم والا۔ کشادہ
حلق والا۔ کال اتلفت۔

عَبِقٌ (س) عَبَقًا وَعَبَاقَةٌ وَعَبَاقِيَةُ الطَّيْبُ
بِهِ: خوشبو لگنا _____ الْمَكَانُ بِالطَّيْبِ: جگہ
کا خوشبو سے بھڑک اُھننا _____ فَلَانٌ
بِالشَّيْءِ حَرِيصٌ ہونا _____ بِالْمَكَانِ:
اقامت کرنا۔

عَقَبَ زَائِحَةُ الطَّيْبِ: خوشبو پھیلانا۔

العَبْقَةُ: گھی وغیرہ کا پتیرہ۔

العَبِقُ: خوشبو دار۔ وہ چیز جس سے خوشبو
بھڑکے۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ عَبِقٌ لَبِيٌّ" یعنی
ظریف مرد۔

الْعَبَاقِيَةُ: مہ۔ مکار۔ مصیبت۔ چہرے پر زخم کا
نشان۔ شاطر چور۔

عَقْفَرُ عَقْفَرَةً الْمَسْرَابُ: سراب کا چمکانا۔

عَقْفَرٌ: نام ایک مقام کا جس کے متعلق عرب کا
گمان تھا کہ وہاں چٹات بہت ہیں۔

الْعَقْفَرِيُّ: عمق کی طرف منسوب۔ سردار۔ ہر
چیز سے فائق۔ نجب انگیز چیز۔ مؤنث عَقْفَرِيَّةٌ (_____
وَالْعَبَاقِيَةُ) ایک قسم کا نفیس فرش۔

عَبِكَ (ن) عَبِكًا: الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔

العَبِكَةُ: کلوا۔ مکھہ کی میل۔ رستی کی گانٹھ
کہتے ہیں "يَبِيْلِي الْحَبْلُ وَتَبْقَى الْعَبِكَةُ" یعنی
رستی جل جائے اور ٹل نہ جائے۔

عَبِلَ (ض) عَبَلًا: الشَّجَرَةُ: درخت سے
چنے گرا _____ الْحَبْلُ: رستی پٹنا _____
الشَّيْءُ: کاٹنا۔ رد کرنا۔ روکنا _____ بَہ: لے جانا
_____ الشَّجَرُ: بچے لگانا۔

عَبِلَ (س) عَبَلًا وَعَبِلٌ (ك) عَابِلٌ لَا وَعَبَالَةٌ
موٹا ہونا۔ صفت عَبِيْلٌ وَعَبِيْلٌ جِ عِبَالٌ وَعَابِلٌ
جِ عَابِلٌ۔ مؤنث عَبِيْلَةٌ جِ عَبِلَاتٌ وَعِبَالٌ۔

أَعْبَلُ: موٹا ہونا۔ سفید ہونا _____

الشَّجَرُ: درخت کا لٹی ہوئی پتیوں والا ہونا۔

العَبِلُ: لٹی ہوئی پتیاں۔ گرے ہوئے پتے جِ
أَعْبَالٌ۔

العَبِيْلُ: موٹا۔ مؤنث عَبِيْلَةٌ۔

فساد۔
العقب والعقبۃ۔ کمروہ امر۔ شدت۔ سخت
زمن۔
العقبۃ۔ چوکت۔ بیڑی کا زینہ۔ ج عقب و
عقبیات۔ عقبیات المویت موت کی سختیاں۔
العقبۃ۔ وادی کاموز۔
العقبی۔ رضامندی۔
الأعقبۃ۔ باعث عتاب۔ ج أعقابہ۔
العقبوب۔ جس پر عتاب کا اثر نہ ہو۔ راست۔
المعتقبۃ والمعتبۃ۔ ہم۔ عتاب۔ غضب۔
المعتقوب۔ غم۔ جس پر عتاب کیا جائے۔
أَمَّ عَقِبَانِ أُمَّ عَقَابٍ۔ بجز۔
عَقَدَ (ک) عَقَادًا وَعَقَادَةً الشَّيْءُ تَيَارَ هَوَانًا
آوارہ ہونا۔
عَقَدُوا عَقْدَ الشَّيْءِ تَيَارَ كَرَاهَا۔
تَعَقَّدَ لَهَا صُنْعَهُ غُورَ سَ كَرَاهَا۔
العقائد۔ سامان جو کسی مقصد کیلئے تیار کیا جائے۔
سامان جنگ۔ بڑا ہمالہ۔ ج أعقَدُوا عَقْدًا أَعْيَدَهُ۔
العقد والعقد من الخيل دورنے کے لیے
تیار گھوڑا۔ مضبوط۔ نام الخلقۃ (ڈکرومنٹ)
العقدۃ۔ سامان۔ کہا جاتا ہے "خَدَّ لِلْأَمْرِ
عَقْدَةً" کام کے لیے اس کا سامان لو۔ ج عَقْدَ
العقود۔ یک سالہ ہماری کا پتہ ج أعیَدَهُ
عَدَانٌ۔
العقیدۃ۔ تیار۔ آوارہ۔ بھاری بھر کم جسم کا۔
العقیدۃ مؤنث عقیدۃ۔ سنگھار دان۔
عَتَرَ (ض) عَتَرًا الشَّيْءُ مَضْبُوطٌ هُوَ
تَعْتَرَا الْعَقِيْرَةَ ذَرْعًا كَرَاهَا عَتَرَا
وَعَتَرَا الْوَفْحَ حَرَكْتُ كَرَاهَا۔
العشر۔ اصل۔ اور اسی سے مش ہے "عقارث
إِلَى عَشْرًا لِمِنْش" یعنی لیس اپنی اصل کی
طرف لوٹ گئی یہ مثال اس کیلئے بولی جاتی ہے جو
اپنی پرانی عادت پھر اختیار کر لے۔ العشر: ہر وہ
جانور جو ذبح کیا جائے۔ بکواس ()
والعقیرۃ، ہماری جس کو جاہلیت کے زمانہ میں
رجب کے مہینے میں ہتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے
تھے۔ ج عتائر۔
العقیرۃ۔ کبہ۔ اولاد۔ منگ خالص کا کھڑا۔

خوشگوار تموک۔ مرز نجوش۔ دانوں کی تیزی و
صفائی۔
العقار۔ علموتاسل۔
العقار۔ بہار۔ مضبوط گھوڑا۔ سخت خالی مقام۔
المعتَر من الریحال: موٹا۔ اور عوام کے
زوریک بمعنی شریر۔
عَقْرَسَةٌ: سخت جھینٹا۔ سختی سے پکڑنا۔ عَقْرَسَةٌ
مَالَةٌ: بال غضب کرنا۔
العقوس والعقوس: سخت بھینچنے والا۔ بڑے
ذیل ڈول کاموٹے موٹے جوڑوں والا۔ شیر۔ مرغ۔
العقورنس: سخت سرکش۔ غضبناک۔ بلا۔
معیب۔
العقورنس۔ موٹی مضبوط اونٹنی۔ العقورسان۔
مرغ۔
عَقْرَفَ لَهْ: سخت ہونا۔
تَعَقْرَفَ: بزرگی ظاہر کرنا۔
العقورف والعقوروف۔ خبیث۔ بدکار۔ مضبوط
اونٹ۔ ج عتاریف۔
العقورفان۔ مرغ۔
عَقَفَ (ض) عَقْفًا الشَّيْءُ: بال آکھیرنا۔
العِقْف من اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ۔
عَتَقَ (ض) عَتَقًا وَعَتَقًا وَعَتَاقًا وَعَقَاةً
العقبۃ: آزاد ہونا۔ صفت عتیق و عتاق۔
عَتَقَ (ن) عَتَقًا وَعَقْفًا وَعَتَقَ (ک) عَتَاقَةً
پرانا ہونا۔ الشئ: درست ہونا۔
الخمر: شراب پرانی اور عمدہ ہونا۔ صفت عتاق
و عتیق و عتاق۔ التیمین علیہ: قسم
واجب ہونا۔
أَعْتَقَ الْعَبْدَ: غلام آزاد کرنا۔ القوم:
تیز روزانا۔ مَالَةٌ: درست کرنا۔
عَتَقَ: الخمر: پرانی کرنا۔ عَتَقَ الْقَوْمَ:
کپڑے کو پرانا کرنا۔ فَلَا نَأْبِقِيهْ: منہ سے
کٹ کھانا۔
العقیق: ہم۔ اصل کا خالص ہونا۔ جمال۔
شرافت۔ نجابت۔ آزادی۔ کھنگ۔
العقیق: کھنگ۔ آزادی۔ عتاق بمعنی کدھا کی
جج۔
العتاق: نا۔ کدھا۔ ج عتاق و عتیق۔ کشادہ

منگ۔ عمدہ شراب۔ پرانی شراب۔ دوشیزہ۔ ج
عَتَقَ: عَتَقَ الثُّرَيَّا: نام ستارہ () و
العاقبہ پرانی سرخ کمان۔
العقاق: پرانی عمدہ شراب۔
العتیق: پرانا۔ آزاد کردہ غلام۔ کریم۔ عمدہ ج
عَتَقًا وَعَقْفًا: قَوْمٌ عَتِيقٌ: خوش منظر گھوڑا۔
ج عتاق۔ التیمین العتیق: خانہ کعبہ۔ اُمَّةٌ
عَتِيقٌ: آزاد کردہ لونڈی۔
الشعقۃ: پرانی عمدہ شراب۔ ایک قسم کا عطر۔
عَتَقَ (ض) عَتَقًا وَعَقْفًا: لڑائی میں حملہ
کرنا۔ القوم: گھوڑے کا دانت کاٹنے کا
ارادہ کرنا۔ عَتَقَ الْبَلَدَ: شہر پر ظلم کرنا۔
عَلَى الْأَمْرِ: کسی کام پر اقدام کرنا۔ إِلَى
الْمَكَانِ: ماکل ہونا۔ عَلَيهِ بِعَيْنِهِ وَشَرٌّ:
بھلائی یا بُرائی سے پیش آنا۔ اللَّيْنُ: درود
کا کھنا ہونا۔ القوم: کمان پرانی ہونے
سے سرخ ہونا۔ صفت عتاق ج عتاق۔
العتاق: نا۔ شریف۔ خالص۔ التیمین
العتاق: صاف شراب۔ أَحْمَرُ عَتَاكُ: تیز
سرخ۔
العتك: ہم۔ زانہ۔ کہا جاتا ہے "مَضَى عَلَيْهِ
عَتَاكُ" یعنی ایک زانہ گزر گیا۔
العتیق: پرانے ہونے سے سرخ۔
من الأيام: سخت گرمی والا۔
عَتَلَهُ (ن) ض) عَتَلًا: سختی سے کھینچنا۔ کہا جاتا
ہے "عَتَلَهُ إِلَى السَّبْحِ" قید خانے کی طرف
سختی سے کھینچنا۔ الشئ: اٹھنا۔
عَتَلَ (س) عَتَلًا إِلَى الشَّيْءِ: بُرَائِي كِي طَرَفٍ
جلدی کرنا۔ صفت عتیل۔
إِنْعَتَلَ: کھنچ جانا () و تَعَتَلَ: جگہ سے نہ
ہٹنا۔
العقلۃ: بڑا ذہیلہ۔ گدالہ۔ بڑی لاشی۔ ج عقل۔
العقل: بہت کھانے والا۔ سرکش۔ سخت عادت
والا۔ سخت۔
العقل: باربردار۔ قلی۔ پیشہ کا نام۔ العقلۃ۔
العقل: مزدور۔ خادم۔ ج عقل و عقلۃ۔ داء
عقل: سخت مرض۔
المعقل: کھینچنے میں قوی و مضبوط۔

لوگوں کی جماعت۔
 عَثْرَان (ض) و عَثْرِي (س) و عَثْرِي (ك) عَثْرَان و
 عَثْرِي و عَثْرَانَا۔ گزرتا۔ الفَرْشُ: بھوڑے کا
 پھسلنا اور اونداھا ہونا۔ العِزْقُ: رُك كَا
 حركت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”عَثْرِيَهُمُ الرِّمَانُ“
 زمانہ نے ان کے اندر جاہلی ڈال دی ”عَثْرُ
 جَدَّة“ یعنی ہلاک ہو گیا۔
 عَثْرَان (ن) عَثْرُوا و عَثْرُوا۔ عَلِي السَّبْرِ و عَثْرِيهِ
 بھید پر مطلع ہونا۔
 عَثْرُوا و عَثْرُوا۔ پھسلنا۔ اَعَثْرَهُ عَلِي السَّبْرِ
 و عَثْرِيهِ: بھید پر مطلع کرنا۔ اَعَثْرَهُ عَلِي
 اَصْحَابِيهِ: بتا رہا اَعَثْرِيهِ عِنْدَ الْاَمِيرِ: عيب
 لگانا۔ طعن دینا۔
 تَعَثَّرَ الرِّجْلُ و الفَرْشُ و الجِلْدُ: بمعنی عَثْرُ
 لِسَانِهِ: زبان کا لٹکنا۔
 العَثْرُ: عَقَاب (و العَثْرُ) جھوٹ۔
 العَثْرَةُ: لغزش۔ جدار۔ لڑائی۔ گزرتا۔ ج عَثْرَات۔
 العَثْرُورُ: بہت کرنے والا۔ بہت بھولنے والا۔
 العَثْرِي: جھوٹا۔
 العَاثِرُورُ: شیر کے شکار کیلئے گڑھا۔ کتوں ج
 عَوَابِرُ و عَوَابِرُ (و العَطَانُ) پھسلن۔
 بدی۔ تھرو۔ جائے ہلاکت۔ جب کوئی آدمی درط
 میں پڑ جائے تو کہا جاتا ہے ”قَدْ وَقَعَ فِي عَاثِرُورٍ“
 شہر۔ یعنی شدت میں پڑ گیا۔
 العِثْرِي: مٹی۔ غبار (و العِثْرِي و العِثْرِي)
 مخفی نشان۔
 عَثْرُكَلُ الهُوْدُجِ: ہودھ کو جھار وغیرہ سے
 مزین کرنا۔ الرِّجْلُ: ست رفقار سے
 دوڑنا۔ العِثْرُورُ: بہت بھولے دار ہونا۔
 العَثْرُكُولَةُ و العَثْرُكُولُ و العَثْرُكَالُ: کھجور کا
 کھجان عَثْرُكَيْل۔
 العَثْرُكُولَةُ: جھار وغیرہ جو ہودج میں لٹکایا
 جائے۔
 عَثْرِل (س) عَثْرَلَا۔ الشَّقِي: بکھرت ہونا۔ ہونا
 ہوتا۔ صفت عَثْرِل و عَثْرَل۔
 عَثْرَلْت (ن) عَثْرَلَا۔ يَدُهُ: ٹوٹنے کے بعد ٹیڑھا
 ہونا۔
 العَثْرَلُ: بکری کے ادبھہر کی چربی کی چھار۔

تکلیف پہنچانا۔
 العَاثِرُ و العَثْرُونُ: قوی عَثْرُن۔
 العَيْنُ مِنَ الرِّجَالِ: سخت پر حملہ کرنے والا۔
 عَيْتَهُ (س) و عَيْتَهُ و عَيْتَهُ و عَيْتَهُ و عَيْتَهُ
 و عَيْتَهُ و عَيْتَهُ: کم عقل ہونا۔ مدہوش ہونا۔
 صفت مَعْتُوهُ و مَعْتَهُ و عَيْتَهُ۔
 فِي الْعِلْمِ: حریص ہونا۔ عَيْتَهُ فُلَانٌ فِي فُلَانٍ۔
 تکلیف پہنچانے کا خواہش مند ہونا۔ صفت عَيْتِيهِ ج
 عَيْتَهُ۔
 تَعْتَهُ: جاہل بنا۔ پاگل بنا۔ عْتَهُ: تخاصل
 برتا۔
 العَيْتِيَّة و العَيْتِيَّة: مہ۔ جنوں اور دہشت
 سے پاگل لوگ۔ العَيْتِيَّة: گمراہی۔ ہوتوئی۔
 عَيْتِيَّة و عَيْتِيَّة و عَيْتِيَّة و عَيْتِيَّة: کھیر کرنا۔ حد سے
 گزرتا۔ صفت عَابِج عَيْتَهُ و عَيْتِي عَيْنِ
 الْاَدْبِ: ادب قبول نہ کرنا۔
 العَاثِي: قا۔ سرکش۔ لَيْلِ عَابِ: بہت تاریک
 رات۔
 العَيْتِي: سرکش۔ ج اَعْتَاء۔
 عَيْتِي يَعْنِي: بمعنی عَيْتِيَّة۔
 تَعْتِي تَعْتِيًا: نافرمانی کرنا۔ اطاعت نہ کرنا۔
 عَيْتُهُ (ن) عَيْتًا۔ اصرار کرنا۔ عَيْتُهُ العَيْتَةُ
 الصُّوْفِ: کپڑے کا اون کو چائنا۔ عَيْتُهُ الحَيْثَةُ
 فُلَانًا: سانپ کا ڈس لینا۔ سانپ کے چھو گئے سے
 بال کا گزنا۔
 عَيْتُهُ تَعْتِيًا و عَيْتُهُ عَيْتًا و مَعَاثَةً فِي
 عَيْتِيهِ: سرٹکانا۔
 اَعْتَهُ: عَثْرُو سبب سے: بداصلی کا نیکی سے روک
 دینا۔
 العَيْتُ: ایک قسم کے سانپ جو خشک سالی میں
 ایک دو سرے کو کھاجاتے ہیں۔ ج عَيْتَات۔
 العَيْتَاء: سانپ۔
 العَيْتَةُ مِنَ النِّسَاءِ: لاغریدن کی عورت۔ گنام
 حقیر عورت ج عَيْتَات۔
 العَيْتَةُ: کپڑا اون چائے والا۔ ج عَيْتُهُ و عَيْتُهُ۔
 بڑھیا۔ ہوتوئی عورت۔ بد زبان گنام عورت۔
 عَيْتُ (ض) عَيْتُجَا۔ آہستہ آہستہ پینا۔
 العَيْتُجُ: رات کا حصہ (و العَيْتُجُ و العَيْتُجَةُ)

عَتَمَ (ض) عَتَمًا۔ اللَّيْلُ: رات کا ایک حصہ
 گزرتا۔ عَنِ الْأَمْرِ: کام کرتے کرتے
 رُك جانا۔ قَبْرِي الضَّيْفِ: مسلمان کے کھانے میں
 دیر کرنا۔
 عَتَمَ عَنِ الْأَمْرِ: کام کرتے کرتے رُك جانا
 قَبْرُهُ: مسلمان کے کھانے میں تاخیر کرنا۔ کہا
 جاتا ہے ”مَاعَتَمَ أَنْ وَقَفَ بِنَا“ یعنی دیر نہیں کی۔
 ”حَمَلٌ عَلَيْهِمْ فَمَا عَتَمَ“ یعنی ان پر حملہ کیا تو
 مذہ نہیں پھیرا۔ الرِّجْلُ: تاریکی میں چلنا
 الطَّائِرُ: پرندہ کا انسان کے سر کے قریب
 پڑ پڑ پھرانا۔
 اَعْتَمَ قَبْرِي الضَّيْفِ: مسلمان کے کھانے میں
 دیر کرنا۔ دیر ہونا (اللازم و مستدیر)۔ حَاجَتُهُ
 مؤخر کرنا۔ حَاجَتُهُ: مؤخر ہونا۔
 اللَّيْلُ: رات کا ایک حصہ گزرتا۔
 الرِّجْلُ: تاریکی میں چلنا یا داخل ہونا۔
 عَنِ الْأَمْرِ: کام کرتے کرتے رُك جانا۔
 عَتَمَتِ (ض) عَتَمًا و اَعْتَمَتِ و تَعَتَمَتِ
 و اِسْتَعْتَمَتِ النَّاقَةُ: عشاء کے وقت دوبا جانا۔
 صفت عَاتِمَةٌ: ج عَاتِمَات و عَوَابِرُ اِسْتَعْتَمَ
 الرِّجْلُ: دیر کرنا۔ النِّعَمُ: چوپایوں کے
 دوہنے میں دیر کرنا۔
 العِثْمُ و العِثْمُ: جنگلی زیتون کا درخت۔ واحد
 عِثْمَةٌ و عِثْمَةٌ۔
 العِثْمَةُ: رات کی پہلی تہائی۔ رات کی تاریکی۔
 دیر کرنا۔
 العَاتِمُ: قا۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَنَا ضَيْفٌ
 عَاتِمٌ“ ہمارے پاس مسلمان دیر میں شام کے
 وقت آیا۔ مؤنث عَاتِمَةٌ۔
 الشُّجُومُ العَاتِمَات: ستارے جو غبار وغیرہ کی
 وجہ سے تاریک ہو جائیں۔
 العِثْمُومُ: اونٹنی عشاء کے وقت دودھ دینے
 والی۔ العِثْمُومَةُ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔
 المِعْتَامُ: دیر کرنے والا۔ الرِّجْلُ المِعْتَامُ القَبْرِي
 دیر میں مسلمان کا کھانا پیش کرنے والا۔
 عَتَمَتِ (ض) ن) عَتَمَتَا۔ اِلَى المِسْجِدِ: قید خانے
 کی طرف زور سے دھکیلانا۔
 اَعْتَنَ عَلَي غَرِيْبِهِ: قرض دہر پر سختی کرنا۔

تعب کیا جائے۔ العجائب: تعجب کی حد سے متجاوز۔ مہاند کے لئے۔ عَجَبْتُ عَجَابًا اور عَجَبْتُ عَجَبًا کہا جاتا ہے۔
العجیبتہ۔ جس پر تعجب کیا جائے۔ ج عَجَابَیْب۔
الأعجوبة۔ جس پر تعجب کیا جائے۔ ج أعاجیب۔
العجیبتاء۔ عورت جس کی خوبصورتی یا بد صورتی پر تعجب کیا جائے۔ مِنِ الْبِنَاتِ۔ مویٰ اونٹنی۔
رَجُلٌ بَعَجَابَةٌ۔ صاحب عجائبات۔
العجائب۔ عجائبات۔ اس کا واحد نہیں۔
العجدة۔ کوا۔ ج عَجْد۔
العجدو والعجد۔ دانہ انگور۔ دانہ خشک انگور۔
عَجْر (ن) عَجْرًا۔ عَجْفَةٌ: گردن موڑنا۔
بِالسَّيْفِ: کھوار سے حمل کرنا۔
القاضی عَلَیْهِ قاضی کا تصرف سے روک دینا۔
ہ بِالْعَصَا: لاشعنی مارنے سے بدھی پڑنا۔
السَّیِّئِ: بھارتا (عجوزا و عجزانہ و عاجز) خوف سے جلدی گزرتا۔
عَجْر (س) عَجْرًا۔ موٹا ہونا۔ بڑے پیٹ کا ہونا۔ صفت أعجْرُ۔ القَرْسُ: موٹا ہونا۔ سخت ہونا۔
تَعَجَّرَ بظَنَّةٍ: موٹاپے کی وجہ سے پیٹ میں سلوٹ پڑنا۔
أَعْتَجِرُ۔ علمہ لپیٹنا۔ اعتجرت المرأة: اوڑھنی ڈالنا۔
العجور۔ اُبھار۔ مقدار جسم۔
العجوزة۔ گرہ (دھاگے یا لاشعنی یا بدن کی رگوں کی) کہا جاتا ہے "ذَكَرَ عَجْرَهُ وَبُحْرَهُ" یعنی اس کے عیوب بیان کر دیے یا اس کی ظاہر پوشیدہ سب باتیں بیان کر دیں۔
العجوز۔ خربوزہ کی ایک قسم۔
الأعجور۔ بڑے پیٹ والا۔ بہت بھرا ہوا کپڑا۔
مؤنث عَجْرَاءُ ج عَجْرَاءُ۔ العجواء: گرہ دار لاشعنی۔
العجوار۔ گوندھے ہوئے آنے کا پیرا کھانے والا۔

العشيان۔ نریجو۔
عَجَّ (ن ض) عَجَّوْ عَجْبِيخًا۔ چلانا۔ آواز بلند کرنا۔ النَّاقَةُ: اونٹنی کو "عجاج عجاج" کہہ کر ہانکنا۔ وَأَعَجَّتْ الرِّيحُ: ہوا کا غبار اُڑانا۔ کہا جاتا ہے "لَهُ زَائِحَةٌ تَفْجِعُ فِي الْمَسْجِدِ" اس کی بو ہے جو مسجد میں بھڑک اُٹتی ہے۔
عَجَّحَ الْغُبَارُ: غبار اُڑانا۔ التَّبَيُّتُ مِنَ الدُّخَانِ: مکان کو دھوئیں سے بھرنا۔
تَعَجَّحَ: دھوئیں سے بھرنا۔
العججة۔ ایک قسم کا کھانا جو انڈیا، آٹا اور کھی یا تیل سے تیار کیا جاتا ہے۔ خاگینہ۔
العجاج۔ غبار۔ دھواں۔ بیوقوف۔ اونٹنی لوگ۔ واحد العجاجة۔
العجاجة۔ غبار۔ بہت اونٹ۔ کہا جاتا ہے "لَبَدَّ عِبَادِجِنَّةً" یعنی جس کام میں تمہارا سے زک گیا "نَفَّ عَجَاجَتَهُ عَلَيْهِمُ" یعنی عمارت ڈالنا۔
العجاج۔ چیخنے والا۔ چلانے والا۔ غبار کو اُڑانے والا۔ يَوْمَ عَجَّاجٍ: گردو غبار کا دن۔
رَبْعٌ مَعَاجِيحٌ: غبار اُڑانے والی ہوا۔
عَجِب (س) عَجَبْنَا مِنَ الْاَفْرَوْلِ: تعجب کرنا اللہ پر بند کرنا۔
أَعَجَبَةٌ وَعَجْبَةٌ: تعجب میں ڈالنا۔ أَعَجِبَ بِالسَّيِّئِ: خوش ہونا اور تعجب کرنا۔
أَعَجِبَ بِنَفْسِهِ: غرور کرنا۔ تکبر کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَعَجَبْتُ بِوَأَيْهِ" وہ اپنی رائے پر مغرور (اور یہ شاز ہے اس لیے کہ فعل تعجب جموں سے بنایا گیا ہے)۔
تَعَجَّبْتُ وَأَسْتَفْجِبُ مِنْهُ: تعجب کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَعَجَّبْتَنِي فَلَأَنْ" یعنی تلاش نے مجھ کو فریفت کر لیا اور رفتہ رفتہ زال دیا۔
العجب۔ ہر شے کا پچھلا حسہ۔ ذم کی جز۔ ج عَجُوبٌ۔
العجب۔ فخر غرور۔ خود بینی۔ پیش آمدہ چیز کا انکار۔
العجب۔ حیرانی۔ تعجب۔ مِنَ اللَّهِ: رضامندی ج أعجاب۔
العجاب والعجاب والعجيب۔ جس پر

العقول۔ بیوقوف۔ ج عقل۔
العقل۔ نریجو۔
العقول۔ سر اور جسم پر بہت بالوں والا۔
مِنِ الرِّجَالِ: اُچھدر رشت مزاج۔
عَقَمَ (ن) عَقَمًا۔ الْعَظْمُ الْمَكْسُورُ: ٹوٹی ہوئی بڑی کاٹھورا جڑنا۔ الْعَظْمُ: بڑی کو ٹاھورا جوڑنا۔
اِعْتَمَمَ بِهِ: مد طلب کرنا۔ نَفَعَ اَهْمَاءَ بِيَدِهِ: جھکا۔
العقنوم۔ بچو ہاتھی۔
العقنقی۔ گور خر۔
العثمان۔ حباری کا پتہ۔ سانپ۔ سپولیا۔ اڈوھے کا پتہ۔
أَبُو عَثْمَانَ۔ سانپ۔
عَقَنَ (ن) عَقْنًا وَعَقْنًا وَعَقْنًا فِي الْعَجَلِ: ہمارے پڑھنا۔ وَعَقْنُ الْقَوْمِ: کپڑے کو دھونی دینا۔ عَقْنَتْ وَعَقْنَتْ النَّارُ: آگ سے دھواں لگنا۔ کہا جاتا ہے "عَقْنُ عَلِيِّ الْقَوْمِ" یعنی فساد پیدا کرونا۔
عَقْنِ (س) عَقْنًا۔ الْقَوْمِ: کپڑے کا خوشبودار ہونا۔
تَعَقَّنَ: دھونی لگنا۔
العثمان۔ مہ۔ غبار۔ دھواں۔ ج عَوَائِنُ۔
العقن۔ دھواں۔ غبار۔ چھوٹا ہونا۔
العین والمعتن۔ دھواں لگنے سے بگڑا ہوا کھانا۔
العین۔ ناظم ہال۔ رنگی ہوئی روٹی۔
المعتن۔ مضم۔ بڑی ڈاڑھی والا۔
العقنون۔ ڈاڑھی۔ مِنَ الْمَطْرِ او الرِّيحِ بَارِشٌ يَأْوِي اِلَيْهِمَا عِثَانِيْنِ۔
عَثَانِيْتَا عِثْوًا وَعِثْوًا وَعِثْفِيْنِ وَعِثْفِيْنِ وَعِثْفِيْنِ عِثْفِيْنِ عِثْفَا وَعِثْفَا وَعِثْفَا فَمَا قَسَادًا قَفْرًا كِبْرِيْسًا مِبَانَةً كَرْنَا۔ صفت عاث۔ ج عَثَاةٌ وَعِثْفِيْنٌ وَعِثْفِيْنٌ۔
العثوة۔ زلف و راز۔ ج عِثْفِيْنٌ۔
الأعشى۔ سیاہی مائل رنگ والا۔ بیوقوف۔ بہت بالوں والا۔
العشواء۔ بچو۔

العجاجير۔ گوندھے ہوئے آنے کے پڑے۔
العجوز۔ ہوا کی وجہ سے ریت میں دھاری ج عجاجير۔
المعجر۔ عورت کے سر پر باندھنے کا کپڑا۔ اوڑھنی۔ پگڑی۔
المعجر۔ عمامہ بندھا ہوا۔
عجودہ۔ ننگا کرنا۔
تعجودہ۔ ننگا ہونا۔ صفت معجود۔
العجود۔ ہلکا پھلکا تیز۔ سخت۔ عضو تامل۔
العجارد۔ عضو تامل۔
العجود۔ دلاور۔ ننگا۔
العنجد۔ بد زبان عورت۔
تعجرف۔ تکبر کرنا۔ سرکشی کرنا۔
العجوفۃ۔ تکبر کلام میں آکثرین۔ کہا جاتا ہے "فی الجمال عجوفۃ و عجوفۃ فی المشی" یعنی اونٹ چلنے میں لا پورا ہے۔
عجارف الدهر و عجارفۃ حوادث۔
عجارف المطر و عجارفۃ بارش کی شدت۔
عجوز الرجل۔ تیز روڑنا۔
العجوز و العجوز و العجاز۔ سخت آدمی۔
العجوزۃ۔ اونٹوں کا گھ ۱۰۰ (۱۰۰۰) کا یا دو سو (۲۰۰) کا یا پچاس سے سو (۱۰۰) تک کا۔
عجوزت و عجوزت (ان ک) عجوزا۔
المزاة عورت کا بڑھیا ہونا۔
عجوز (ش) و عجوز (س) عجوزا و عجوزا و عجوزانا و معجوزا و معجوزۃ و معجوزۃ عن کذا۔ قادر نہ ہونا۔ طاقت نہ رکھنا۔
عاجز ہونا۔ کہا جاتا ہے "عجوز فلان عن العمل" یعنی بوڑھا ہو گیا۔ طاقت نہیں رکھتا۔ صفت عاجز۔ ج عواجز و عجوز۔
عجوزہ۔ عاجز کرنا۔ عجز کی طرف منسوب کرنا۔
روک دینا۔ المزاة۔ عورت کا بڑھیا ہونا۔
اعجزہ۔ عاجز کر دینا۔ عاجز پانا۔ اعجزہ الشئ۔ چیز کا قبضہ سے نکل جانا۔ اعجز فی الکلام اپنے مقصود کو بہترین اسلوب سے ادا کرنا۔

عاجزۃ مفاجزۃ۔ مسابقت کرنا۔ عاجز الرجل۔ عاجز ہونا۔
تعجز۔ عجز کا دعویٰ کرنا۔ العجیز۔ اونٹ کے چوڑے سوار ہونا۔
استعجزہ۔ عاجز پانا۔
العجز۔ تلوار () و العجز و العجز و العجز و العجز۔ بچھلا حصہ۔ سرین۔ عجز۔ بیت الشجر۔ صمرد ثانی ج اعجاز۔ بنات العجز۔ تیریں۔ اعجاز النخل۔ درخت خرما کی بڑیں۔ کہا جاتا ہے زکب اعجاز الابل یعنی ذلت اور شقت میں مبتلا ہونا۔
رجل عجز و عجز۔ عاجز۔ کہا جاتا ہے "هو عجز فاینبو و عجز نھ" یعنی وہ اپنے باپ کا آخری لڑکا ہے (مذکر و مؤنث واحد جمع سب کے لئے) "ولید بعجزۃ" والدین کے بوڑھا ہونے پر پیدا ہوا۔
العجاز و المعجازۃ۔ پتھا جس سے تلوار کے دستے کو باندھتے ہیں۔
العجازۃ و الاعجازۃ۔ گدی جس کو عورتیں سرین پر باندھتی ہیں تاکہ بڑے معلوم ہوں۔
العجوز۔ بڑھیا۔ ج عجز و عجوز۔
العجوز۔ شراب۔ مصیبت۔ کشتی۔ راستہ۔ ہانڈی۔ کمان۔ آگ۔ موت۔ کجور کا درخت۔ اونٹنی۔ سوئی۔ زمین۔ خرگوش۔ شیر۔ ہرن۔ کابزار۔ کتواں۔ دریا۔ بہاؤ۔ گائے۔ سوداگر۔ ڈھال۔ توبہ۔ تیل۔ بھوکا۔ حیران۔ بڑا پیالہ۔ بھوک۔ دوزخ۔ لڑائی۔ نیزہ۔ بخار۔ خیمہ۔ آفتاب کا ہالہ۔ عورت کی قمیص۔ ڈنیا۔ بھیڑیا۔ جندا۔ گدھ۔ رعشہ۔ گھوڑی۔ آسمان۔ گھی۔ گرم ہوا۔ سال۔ آفتاب۔ خط۔ بات۔ صومعہ۔ بچو۔ گور خراہہ۔ پھوپھو۔ چاندی۔ قبلہ۔ منگ۔ دیگ۔ قیمت۔ لشکر۔ کعبہ۔ عورت۔ کتا۔ منگ۔ بادشاہ۔ دیگ کا پایہ۔ داہنا ہاتھ۔ تلوار کی دھار۔ عایت۔ پرہیزگاری۔ قبضہ۔ تلوار کی سب۔ ایام العجوز۔ جاڑے کے آخر میں سات دن سخت سردی کے جس کے چار دن فروری میں اور تین دن مارچ میں ہوتے ہیں اور عام لوگ ان کو "مستفق ضات" کہتے ہیں اور ان دنوں کے نام یہ ہیں صٹ۔ صٹر۔ ویر آیت۔ ہوتقوٰ مقلیل۔

مضفی الجفر یا مکفی الظن۔
(ہت سے شعراء نے اپنے قصائد میں معانی عجوز کے جمع کرنے کی کوشش کی ہے انہی قصیدوں میں سے ایک قصیدہ کتاب کے آخر میں لکھا گیا ہے۔
الاعجز۔ بڑے سرین والا۔ کیش اعجز۔ بھری ہوئی تھیلی۔
العاجز۔ فا۔ ج عواجز۔ لؤب عاجز۔ بھگ کپڑا۔ امزاة عاجز۔ عاجز عورت۔
العجوزاء۔ مؤنث اعجز۔ ریت کا اونچا پیلہ۔
المعجز۔ بڑا پیالہ۔
المعجاز۔ راستہ۔ ہمیشہ عاجز رہنے والا۔
المعجزۃ۔ خارق عادت جس کو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر کر دے اور دوسرے اس سے عاجز ہوں۔ ج معجزات۔
المعجوز۔ سف۔ جس سے سوال میں اصرار کیا جائے۔
العجوزۃ۔ عورت کی سرین۔ کبھی مرد کیلئے بھی بولا جاتا ہے۔ ج عجزوات۔
عجس (ض) عجسا۔ عن حاجتہ۔ باز رکھنا۔ عجس علی الشئ۔ کسی چیز کو مطلوبی سے پکڑنا۔
تعجس۔ پیچھے ہٹنا۔ الامو۔ کسی کام کے درپے ہونا۔ پیچھا کرنا۔ بالقوم۔ دور کرنا۔
تعجسہ راوی کو ضعیف سمجھنا۔ تعجسہ عن حاجتہ۔ کسی کو اس کی ضرورت سے روکنا۔
العجسۃ۔ رات کی تاریکی۔ رات کی ایک ساعت۔
العجوس۔ جو حمل بادل لگاتا بارش۔
العجاساء۔ اونٹوں کا بڑا گدھ۔
المعجس۔ کمان کا قبضہ۔
عجس عجمۃ۔ بہت چمچنا۔
العجساج۔ بہت چمچنے والا۔
العجیل۔ اسیل گھوڑا۔ عمر رسیدہ گھوڑا۔
العجسۃ۔ ج عجاج۔
عجف (ن) عجوفاً۔ کھانا چھوڑ دینا۔
عجف (ض) عجفا و عجوفاً و عجف نفسه عن الطعام۔ باوجود بھوک کے دوسرے کو کھلانے کی غرض سے کھانے کو چھوڑ دینا۔

نَفْسُهُ عَلَى الْمَرِيضِ: صبر سے تیری داری کرنا۔ نَفْسُهُ عَلَى فُلَانٍ: گمراہی کو برداشت کرنا اور مواخذہ نہ کرنا۔
عَجَفَ (ان ض) وَأَعَجَفَ الذَّائِبَةَ: جانور کو لاغر کرنا۔ أَعَجَفَ الْقَوْمَ: بے جانوروں کھانک ہوتا۔ عَجَفَ عَنْ فُلَانٍ: کسی سے دُور ہوتا۔
أَعَجَفَ بِنَفْسِهِ عَلَى الْمَرِيضِ: صبر سے بیمار داری کرنا۔

عَجَفَ (س) وَعَجَفَ (ك) عَجَفًا: کمزور ہونا۔ دُلا ہونا۔ صفت نہ کر عَجَفَ وَأَعَجَفَ اور مؤنث عَجَفَتْ وَعَجَفَاءُ ج عَجَافٌ — البلاذ: بارش نہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَرَلُوْا فِيهِ بِلاَدٌ عِجَافٌ" غیر بارش شدہ شہروں میں آتھ۔

عَجَفَ الزُّجْلُ: آسورگی سے کم کھانا — نَفْسُهُ عَنِ الطَّعَامِ: کھانا چھوڑنا۔
العِجَافُ: اندرائن۔ زمانہ۔ جمع عَجَافٌ كِي غلاب قِياس۔
التَّعَجُّفُ: تنگی حالت۔

العَجِيفُ: لا غزولاً۔ ج عَجِيفِي۔
عَجِلَ (س) عَجَلًا وَعَجَلَةً: جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَجِلَ بِهِ إِلَيْهِ" اس نے ایک کام سے دوسرے کی طرف جلدی کی — الأَمْرُ: دیر سمجھ کر رو سرا کام کرلینا۔

عَجَلَ جلدی کرنا — هُ: سبقت کرنا۔
بِرَأْيِي كَرْنَا — لَهُ مِنَ الشَّيْءِ كَذَا: بیش کرنا۔ اللِّحْمُ: گوشت کو جلدی پکانا۔
أَعَجَلَهُ: سبقت کرنا۔ بِرَأْيِي كَرْنَا: اَعْجَلَ الشَّيْءُ: جلدی کھانا۔ اَعْجَلَتِ التَّائِقَةُ: ناقص پڑے گرا رہا۔

عَاجِلُهُ مُعَاجِلَةٌ: بَدَلِيهِ: جلدی مواخذہ کرنا اور سزا دینا — هُ بِضَرْبَةِ: بارے میں سبقت کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔
تَعَجَّلَ فِي الْأَمْرِ: جلدی کرنا — الأَمْرُ: جلدی کام کرنا۔

اسْتَعْجَلَهُ: براگینتہ کرنا۔ جلدی کرنے کا حکم دینا۔ سبقت کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔
العِجَلُ: چمچڑا۔ عَجُولٌ وَعَجَلَةٌ وَعِجَالٌ

العِجَلَةُ: چمچیا۔ رِهْتُ: ج عَجَلٌ وَعِجَالٌ۔
العِجَلُ والعِجَلَةُ والعِجَالَةُ: جو جلدی کیا جائے۔ کھانا جو موجود ہو۔ ممان کیلئے جو جلدی تیار کیا جائے۔

العِجَلَةُ: جلدی۔ ہلکا پن۔ گارا۔ کچڑ۔ سامان لانے کی گاڑی۔ رِهْتُ: ج عَجَلٌ وَعِجَالٌ وَعِجَالٌ اَعْجَالٌ۔

العَاجِلُ والعِجَلُ والعِجَلُ: جلد باز۔
العَاجِلَةُ: مؤنث عَاجِلٌ: زینا۔
العِجُولُ: چمچڑا۔ ج عَجَاجِيلٌ۔
العِجَالَانُ: مؤنث عِجَالِيٌّ ج عِجَالِيٌّ وَعِجَالِيٌّ وَعِجَالٌ والعِجُولُ ج عِجَلٌ والعِجَالُ ج عِجَالٌ: جلد باز۔

العِجُولُ والعِجَالُ: بہت زیادہ جلد باز۔
العِجُولُ: موت۔ بچنے کو کھونے والی۔ تھمیر عورت۔

العِجَالُ: ناشتہ پانی جو ممان کے سامنے جلدی سے پیش کیا جائے۔
العِجَالَةُ والعِجَالِيُّ والعِجَالِيُّ: تیز چال۔
کہا جاتا ہے "نَسَا الْعِجَالِيُّ" تیز چال چلا اور اس کا ضد ہو جاتا ہے۔

البِغْجَالُ: براگینتہ کرنے والا۔ سبقت کرنے والا۔ ج مَعَاجِيلُ: مَعَاجِيلُ الطَّرِيقِ: مختصر راستے اِمْرًا وَمَعَالٍ: وقت سے پہلے جاننے والی عورت۔

طَرِيقٌ مُسْتَعْجَلَةٌ: مختصر راستہ۔ قریب کا راستہ۔

عَجَمَ (ن) عَجْمًا وَعَجْمًا: مَا: الفُوْدُ: دانت سے کاٹ کر کڑی کی نرمی تختی معلوم کرنا — السِّيفُ: تجربے کے لیے تلوار کو حرکت دینا — الشَّيْءُ: امتحان کرنا۔ آزمائش کرنا۔ صفت عَاجِمٌ ج عَجِمٌ (عَجْمًا) الكتاب او الحَرْفُ: نقطہ لگانا — الكتابُ: حروف پر اچھی طرح وقف نہ کرنا۔ عَجْمَتُهُ الأَمْرُ: عادی بنانا۔ کہا جاتا ہے "مَا عَجْمَتُهُ عَيْنِي مُنْذُ كَذَا" میری آنکھوں نے اس کو فلاں وقت سے نہیں دیکھا ہے۔ "زَأَيْتُ فُلَانًا فَجَعَلَتْ عَيْنِي تَعَجْمَةً كَأَنَّهَا تَقْرُهُ" وَعَجْمٌ عَوْدُ فُلَانٍ: یعنی اس کی

آزمائش کی اور اس کے حال کی تحقیق کی۔
أَعَجِمَ وَعَجِمَ الكتابُ: اعراب نہ لگانا۔ نقطہ اور حرکات لگا کر تفسیر کر کے اہم کوزور کرنا۔ أَعَجِمَ النَّابُ: دروازے میں تالا لگانا۔ الکَلَامُ: عجمی زبان میں گفتگو کرنا۔

عَجِمَ (ك) عَجِمَةً: لکنت ہونا۔ صفت أَعَجِمَ مؤنث عِجْمَاءُ ج عِجْمٌ۔
عَاجِمَةٌ: تجزیہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَاجِمَتْ الأَمْرُ وَعَاجِمَتِي" میں نے امور کی آزمائش کی اور امور نے میری۔

تَعَاجِمَ: القَوْمُ: کنایہ کرنا۔ توریہ کرنا۔ الزُّجْلُ: اجنبی ہونا۔ عجمی ظاہر کرنا۔
إِنْعَجِمَ: عَلَيْهِ الكَلَامُ: دشوار ہونا۔ مبہم ہونا۔
اسْتَعْجِمَ: عجز سے سکت ہونا۔

القِرَاءَةُ: پڑھنے پر قادر نہ ہونا — عَلَيْهِ الكَلَامُ: کلام کا دشوار ہونا۔ مبہم ہونا۔
العِجْمُ والعِجْمُ: ذم کی جڑ۔

العِجْمُ: نلک فارس و فارسی لوگ (العِجْمُ) غیر عرب۔
العِجْمُ والعِجْمُ: چھوہارے کی سٹھلی۔
سٹھلی۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ لِهَذَا الزَّمَانِ عِجْمٌ" واحد عِجْمَةٌ وَعِجْمَةٌ۔
العِجْمَةُ: کجور کا درخت۔

العِجْمَةُ: اسم مرآة۔ تخت چٹان۔ ج عِجْمَاتٌ۔

العِجْمَةُ والعِجْمَةُ: اہم۔ کھول کر نہ بیان کرنا۔ ریت کا تودہ۔
الأَعْجِمُ: غیر عربی اگرچہ عجمی زبان فصیح ہوتا ہو۔ جو صاف کھول کر نہ بیان کرے اگرچہ عربی ہو۔ گو لگا۔ ج أَعْجِمُونَ: أَعْجِمُ: چوپایہ ج عِجْمَاتٌ: ریت کا ٹیلہ جس میں درخت نہ ہو۔

الأَعْجَامُ: غیر عرب۔
العِجَامُ: بڑی چمچاڑ۔
الأَعْجَمِيُّ والعِجَمِيُّ: غیر عرب۔ جو عجم کی جانب منسوب ہو۔
العَوَاجِمُ: دانت۔ مفرد عَاجِمَةٌ۔

وَجَلَّ صَلْبُ الْمُفْجَمِ - آزمائش کے وقت سخت۔

المُفْجَم - مفع - مصدر میسی - حروف جمعی نابت مُفْجَم - بند دروازہ - لغت کی کتاب کو بھی مُفْجَم کہتے ہیں۔

عَجَن (انض) عَجْنَا - الذَّلِيْقِي: آٹا گوند بنا۔ عَلَى الْعَصَا: لاشعی پر ٹیک لگانا۔ الزُّجَلُ: دونوں ہاتھوں کا ٹیک لگا کر اٹھنا۔ مَفْت عَاجِنَج عَجْن - کہا جاتا ہے "فَلَانٌ عَجِنَ وَ خَيْرٌ" یعنی بوڑھا ہو گیا۔

أَعَجِنَ - الزُّجَلُ: عُمر رسیدہ ہونا۔ اِعْتَجِنَ - الذَّلِيْقِي: آٹا گوند بنا۔ فُلَانٌ خَيْرٌ بِنَانَا:

تَعَجِنَ الشَّيْءُ: گندہ جانا۔ خَيْرٌ بِنَانَا - العَجِنُ جِنُ الْجَمَالِ: ہونا اوٹ۔

العَجْنَاءُ: کم دودھ والی اونٹنی۔ بَسْتِ مَوْتِي اُونْتِي:

العَجِين - گندھا ہوا آٹا۔ بِيْرَوَا - ج عَجْن - العَجْنُ: بُولیہ ڈھالے بدن کے مرو یا عورت۔ العَجِيْثَةُ: گندھے ہوئے آٹے کا ایک پیرا۔ بِيْرَوَا: بیوقوف۔ جَمَاعَتِ اُمِّ عَجِيْثَةَ: گندھ۔

العَجَانُ: گردن۔ سِرَن - نُحُوْرِي کے نیچے کا حصہ۔ خَمِيْنٌ اُوْرُوْرِبَا رُوْرِيْمَانِي حَصَّة - ج عَجْنٌ وَا حَصِيْثَةُ:

العَجَانُ: بَسْتِ اَنَّا گوند سے والا۔ بیوقوف۔ عَاجِنَةُ الْمَكَانِ: مکان کا وسط حصہ۔

المِغْفَنُ وَالْمِغْفَنَةُ: آٹا گوند سے کاہرتن۔ عَجِيْةٌ يَنْتَهِمَا: جدائی کروانا۔

تَمَحَّحَ: جاہل بنا۔ اَلْمُوْرُ: متبیس ہونا۔ العَجَابِيْنُ: سبھی جو خالص الشب نہ ہو۔

خَلُوْمٌ - بارہنجی - ج عَجَابِيْنَةُ - عَجَابِيْعُجُو عَجُو التَّحِيْبُو: اُونٹ کا پلانا اور سرکش ہونا۔ عَجِبَتِ اَلْمُوْرَةُ: ماں کا بچے کو

وقت رضاعت کے بعد دودھ پلانا۔ دودھ پلانا۔ فُلَانٌ قَاهٌ: سُدھ کولنا۔ عَجَاهُ اللَّبْنِ: دودھ کا تندا ہونا۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْ فُلَانٌ مَاعَاجِيْةً" یعنی سختی

میں جلا ہوا (و عَاجِي) اَلْوَلْدَةُ: ماں کے علاوہ کسی دوسرے کا دودھ پلانا یا دودھ روک دینا

اور نندا ہونا۔

عَجَاو عَجِيْ: وَجْهَةٌ: سُدھ ٹیڑھا کرنا۔

عَجِي (س) عَجِي الصَّبِيْبُ: دودھ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے پرورش پانا۔

العَجِيْ: ماں کو کھونے والا۔ دوسرے کے دودھ سے پرورش پانے والا۔ مَوْنَتْ عَجِيْبَةَ ج عَجَابِيَا:

العَجِيْ: بچہ کہ جس کی ماں نے وقت کے بعد دودھ پلایا ہو۔ بچہ کہ جس نے دوسرے کے دودھ سے پرورش پالی ہو۔ مَوْنَتْ عَجِيْبَةَ ج عَجَابِيَا و عَجَابِيَا:

العَجُوْقُو الْعَجَاوَةُ: عمدہ قسم کی کھجور۔ الشَّجَاوَةُ وَالْعِجَاوَةُ وَالْعَجُوَّةُ: دودھ جو کہ نیم کولائیں۔

عَجِبَتْ نَجْعِي عَجَبِيَا - الْمَرْأَةُ صَبِيْهَا: عورت کا بچے کو دودھ پلانا۔

العَجَابِيَةُ وَالْعَجَابِيَةُ: عمدہ قسم کی کھجور۔ جَانُوْرُ كَةِ بِنْدِ بَسْتِ كَا شَمَاجُ عَجَبِي وَعَجَبِي وَعَجَابِيَا:

عَدَّ (ن) عَدَّوَا تَعَدَّوَا الشَّيْءُ: شمار کرنا۔ گنا۔ گنا کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَدَدْتُ زَيْنَدًا صَادِقًا"

زید کو میں نے سچا گنا کرنا۔ عَدَدَةُ: المَنْتُ: خوبیاں شمار کرنا۔ خوبیاں بیان کرنا۔ الشَّيْءُ: شمار کرنا۔ عمدہ والا کرنا۔

المَقَالُ: زمانے کیلئے ساز و سامان بنانا۔ اَعَدَّوْ لَأَمْرٍ: تیار کرنا۔ حاضر کرنا۔

عَادَةُ عِدَادًا و مُعَادَةً: لڑائی میں مقابلہ کرنا۔ الشَّيْءُ الْقَوْمُ: چیز کا قوم پر برابر برابر تقسیم ہونا۔

تَعَدَّدُ و تَعَادَدُ: عدد میں زائد ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُمْ يَتَعَدَّدُوْنَ وَيَتَعَادَدُوْنَ عَلَى الْفَلْبِ" یعنی وہ ہزار سے زائد ہیں۔

اِعْتَدَّ: شمار ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا شَيْءٌ لَا يَنْتَعِدُّ" یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور اس کی طرف التفات نہیں کیا جاتا۔ اِعْتَدَّ: اَلْمُوْرُ يَحَاوِرَةُ" یعنی تجارت کا گمان کیا۔ عوام کہتے ہیں "اِعْتَدَّ لِنَفْسِي" یعنی اپنے نفس پر اعتماد کیا۔ اِسْتَعَدَّ لَلْأَمْرِ: تیار ہونا۔

العَدْدُ: شمار۔ کتنی۔ گنا ہوا۔ جِنُ الْإِنْسَانِ: آدمی کی عمر کے سال۔ ج عَدَدَا:

العَدَادُ: عطاء۔ دیرانگی کا اثر۔ ہمسر۔ حریف۔ موت کا وقت۔ بُوْشِي كَابُن - كَابُن كِي اَدَاو - شَار - کہا جاتا ہے "هَوْلِيْنِ عِدَادُوْم" یعنی جملہ ان کے ہے (و العَدْدُ) مِنْ التَّوْبَعِ وَتِ مَتْرَهَ پَرُوْرُو كَا بُوْحَا - کہا جاتا ہے "ہم مَوْنُوْ عِدَادُ" اس کا مرض وقت مقررہ ہو جو کرنا ہے۔ العَدَّ - جَارِي پَالِي جُو مَقْطَعٌ نَبْ - ہوا۔ كَثْرَتُ - کہا جاتا ہے "هَذَا بَرُوْشٌ مِنْ عَدِي" یہ ہم سب سے تمہارا ہے۔ پرانا کتاواں۔ ہمسر کہا جاتا ہے "ہو جَدَك" وہ تمہارا ہمسر ہے۔ ج عَدَدَا:

العِدَّةُ: جماعت۔ چند۔ تعداد۔ کہا جاتا ہے "عِنْدِيْ عِدَّةٌ كُتُبٌ" میرے پاس کتابوں کا ایک ڈبیر ہے۔ "عِدَّةُ الْمَرْأَا" عورت کے طلاق یا شوہر کی وفات پر سوگ کا زمانہ۔ ج عِدَّة:

العِدَّةُ: تیاری۔ کہا جاتا ہے "هَوْلُوْنَا خَلِيْ عِدَّةٌ" تیار رہو۔ سلمان حریف وغیرہ۔ کہا جاتا ہے "اَسْتَعَدَّ لَلْأَمْرِ عِدَّةً" معاملے کیلئے سلمان کو لے لیا۔ ج عِدَّة: ماسے۔ پھنسیاں جو چہرے پر لگتی ہیں۔

العِدَانُ وَالْعِدَانُ: کسی چیز کا زمانہ و موسم یا زمانے کا اول و ہمز۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ فَلْيَلْفِيْنِ عِدَانُ الشَّبَابِ وَ عَلَى عِدَانِ حَيْكَمٍ" ج عِدَاوِيْن:

العِدَاوِي: عدد کی جانب منسوب۔ جو چیز شمار سے بچی جائے۔ العِدِيْلِد: شمار۔ عمدہ۔ کہا جاتا ہے "مَا أَكْفَرَ عِدِيْبَهُمْ" ان کا شمار کس قدر کثیر ہے۔ شمار کیا ہوا۔ ہمسر۔ ہم محل۔ حصہ۔ کہا جاتا ہے "هَلُوْه اللَّزَامِ عِدِيْبَةُ هَلُوْه" یعنی یہ دو ایام اس کے مقدار میں ہیں۔ العِدِيْبُ مِنَ الْقَوْمِ: جو قوم میں شمار کیا جائے ایہام عِدِيْبَةُ: چند دن ج عِدَاوِيْد - العِدَاوِيْد: بھٹ سے ہم محل۔ تقسیم شدہ مال۔ میراث۔ العِدِيْبَةُ: حصہ۔ الشُّجْدَةُ - فَا پُوْرے سامان والا۔ عَدَّر (ن) عَدَّرَاو عَدَّرَةُ: جراثیم کرنا۔ دیرری کرنا۔ عَدَّر (س) مَعَدَّرَاو اِعْتَدَّرَ الْمَكَانُ: پانی

زیادہ ہوتا۔ اِعْتَدَرَ الْمَطَرُ: بکثرت برسا۔
العَادِر: قا۔ جموداً۔ جھٹلنے والا۔

العَدَار: ملاح۔

العَدْرُ وَالْعُدْر: موسلا دھار کثیر بارش۔

عَدَسَةٌ (ض) عَدَسًا: خدمت کرنا۔ عَدَسُ

الْمَوَاطِنِ: جالوروں کو چراتا۔ الشَّيْءُ:

مخت رومناً () عَدَسًا وَعَدَسَانًا

وَعَدَسًا وَعَدَسًا فِي الْأَرْضِ: جانا۔ کہا جاتا

ہے "عَدَسَتْ بِهِ الْعَبِيَّةُ" موت اس کو لے گئی۔

عَدَسٌ: چھینوں والا ہوتا۔ صفت مَعْدُوسٌ۔

عَادَسَ: الزَّجَلُ: بیٹھ سفر میں رہنا۔

العَدَس: مسور۔ واحد عَدَسَةٌ العَدَسَةُ:

چھنی۔ العَدَسَةُ وَالْعَدَسِيَّةُ عِنْدَ عُلَمَاءِ

الطَّبِيعَةِ: شے کے ٹکڑے جو بطور آلات نظر

کے استعمال کئے جاتے ہیں۔

عَدَسٌ: ٹھہرائے گئے لیے ام صوت۔ نام ٹھہر۔

عَدَفَ (ض) عَدْفًا وَعَدْفًا: توڑا کیا۔ کہا

جاتا ہے "مَا عَدَفْتُ أَوْ مَا تَعَدَفْتُ الْيَوْمَ" یعنی

آج میں نے توڑا بھی نہیں کھایا۔ چہ جائیکہ کثیر۔

اِعْتَدَفَ: التَّوْبُ: کبڑے کا کھڑا لینا۔

العَدْفُ: توڑا علیہ۔ توڑا چارہ۔ کہا جاتا ہے

"مَا ذُقْنَا عَدْفًا وَعَدْفًا وَعَدْفًا وَعَدْفًا

وَعَدْفَةً" ہم نے کمانے پانی سے کچھ بھی نہیں

چمکا۔

العَدْفُ: توڑا چارہ۔ ج عَدْفٌ۔

العَدْفُ: لوگوں کی جماعت۔ رات کا ایک

حصہ۔

العَدْفَةُ: لوگوں کی جماعت۔ ہر چیز کا ٹکڑا اس

سے پچاس تک () وَالْعَدْفَةُ: زمین کے

اندروں رخت کی جڑ عَدْفٌ۔

العَدْفُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔

عَدَقَ (ض) عَدَقًا وَعَدَقًا (س) عَدَقًا

وَعَدَقًا وَأَعَدَقَ يَدَهَا: حوض یا کنوئیں کے

کنارے میں کسی چیز کی تلاش کرنے کے لیے

ہاتھ لانا۔ بَطْنُهُ: کسی کام کو اپنی غالب

راے سے کرنا کہ اس کا یقین نہ ہو۔

العَدَقَةُ: ڈول نکالنے کا۔ شاخ کا ٹانج عَدَقٌ۔

العَدَقُ وَالْعَدَوْدَةُ: ڈول نکالنے کا۔ شاخ

کاتناج عَدَقٌ۔

عَدَكَ (ن) عَدَكًا: الضَّوْفُ: اُون دھننے کے

لیے ڈنڈے سے مارنا۔

العَدَكَةُ: اُون دھننے کا ڈنڈا۔

عَدَلٌ (ض) عَدَلًا السَّهْمُ: تیر کو سیدھا کرنا۔

فَلَانًا بِفُلَانٍ: برابری کرنا۔

بِرَبِّهِ: شُرک کرنا۔ الظَّرِيقُ: ٹیڑھا ہونا۔

() عَدَلًا وَعَدُولًا: اَلْيَتِي: رجوع کرنا۔ واپس

ہونا فَلَانًا: موازنہ کرنا۔ هُ فِي الضَّمَلِ: ساتھ

سوار ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَعْدَلُكَ عِنْدِي شَيْءٌ"

تمہارے مشابہ کوئی چیز نہیں () عَدَلًا و

عَدَالَةً وَعَدُولَةً وَمَعْدَلَةً: انصاف کرنا۔

صفت عادل ج عَدُولٌ۔

عَدَلٌ (ك) عَدَالَةٌ: عادل ہونا۔ گواہی کے قابل

ہوتا۔

عَدِلَ (س) عَدَلًا: ظلم کرنا۔

عَدَلُ الشَّاهِدِ: مستحرب جانا الشَّعْرُ: شعر دروست

وزن پر کرنا۔ المَتَاعُ: سامان کو دو حصوں میں برابر

کرنا۔ دو ٹھہری بنانا۔ کہا جاتا ہے "شَرِبَ حَتْمِي

عَدَلٌ" یعنی اس قدر پیا کہ اس کا پیٹ بائند گھڑی

کے ہو گیا (وَأَعْدَلُ) الشَّيْءُ: سیدھا کرنا۔ ہموار

کرنا۔

عَادَلَهُ عَدَاً أَوْ مَعَادَلَةً: موازنہ کرنا۔

ه فِي الضَّمَلِ: ساتھ سوار ہونا۔ الشَّيْءُ:

ٹیڑھا ہونا۔ فِي الْأَمْرِ: متروک ہونا۔ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ:

برابری کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَادَلُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ"

جب کہ دو امر پیش آئیں اور یہ سمجھ میں نہ آئے

کہ کونسا اختیار کرے "قَطَعَ الْعَدَالُ فِي أَمْرِهِم"

یعنی پختہ ارادہ کر لیا۔

اِنْعَدَلُ عَنِ الظَّرِيقِ: ہٹ جانا۔

اِعْتَدَلُ: سیدھا ہونا۔ دو حالتوں میں توسط اختیار

کرنا۔

العَادِلُ: قا۔ شُرک ج عَدُولٌ۔

العَدَلُ: انصاف۔ عادل۔ کہا جاتا ہے "زَجَلُ

عَدَلٌ وَامْرَأَةٌ عَدَلٌ وَعَدَلَةٌ وَرَجُلٌ عَدَلٌ"

نظیر۔ شل۔ ج اَعْدَالُ: العَدَلُ: یکساںہ۔ بدلہ۔ امور

میں توسط۔ برابری۔ امر توسط۔ سیدھا ہونا۔

العَدَلُ: نظیر و شل۔ قیمت۔ کہا جاتا ہے "خُذْ

عَدَلَهُ كَذَا وَكَذَا" یعنی اس کی اتنی قیمت لو۔

گون۔ جالور کی پیٹھ پر ایک طرف کا بوجھ۔ ج

عَدُولٌ وَأَعْدَالُ۔

العَدَلُ: دو گونوں کی برابری۔

العَدَلَةُ وَالْعَدَلَةُ: مستحرب گواہان اور بقول بعض

عَدَلَةٌ واحد ہے اور عَدَلَةٌ جمع۔

العَدِلُ: العَادِلُ۔

العَدِيلُ: نظیر۔ شل۔ رولیف ج عَدَلَاءُ۔

الإِعْدَالُ: برابری۔ تناسب الإِعْدَالُ

الزَّيْبِيُّ: موسم ریتج میں رات کا برابر ہونا۔

الإِعْدَالُ الخَرِيفِيُّ: موسم خریف میں رات

دن کا برابر ہونا۔

المُعْدِلُ وَالْمَعْدُولُ: پھرنے کی جگہ۔ کہا جاتا

ہے "مَالَةٌ مُعْدِلٌ أَوْ مَعْدُولٌ عَنْ كَذَا" یعنی

اس کیلئے فلاں چیز سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں۔

"أَخَذَ مُعْدِلَ الْبَاطِلِ" یعنی اس نے باطل کا

طریقہ اختیار کیا۔

مُعْدَلَاتُ الْبَيْتِ: گھر کے گوشے۔

عَدِمَ (س) عُدْمًا وَعَدْمًا: ضال ہونا۔ گم کرنا۔

بیت کرنا۔ کم کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَعْدُمُنِي هَذَا

الْأَمْرُ" یہ امر مجھ سے تجاوز نہیں کرتا۔

عَدِمَ (ك) عَدَمًا: بیوقوف ہونا۔

أَعْدَمُ اِعْدَامًا: الزَّجَلُ: محتاج ہونا۔ صفت

مُعْدِمٌ وَعَدِيمٌ: ه الشَّيْءُ: محروم کرنا۔

أَعْدَمُنِي الشَّيْءُ: نہ پانا۔ اَعْدَمُ فَلَانًا: منع کرنا۔

العَدَمُ وَالْعَدْمُ وَالْعُدْمُ: فقدان۔ العَدَمُ:

نیستی۔

العَدِمُ: فقیر۔ محتاج۔

العَدِيمُ: بیوقوف۔ دیوانہ۔ فقیر۔ غیر موجود کہا

جاتا ہے "هُو عَدِيمٌ النِّظِيرُ" اس کے ہم مثل

کوئی نہیں۔ ج عُدْمَاءُ۔

ارض عَدْمَاءُ: ویران زمین۔

المَعْدُومُ: مفقود۔ ضروہ۔

عَدَنَ (ض) عَدَنًا: الارض: زمین میں کھاد

ڈالنا۔

الحجر: اَلْكَيْرَانُ۔

عَدَنَ (ن) (ض) عَدَنًا وَعَدُونًا: بِالْمَكَانِ:

اقامت کرنا التُّبَدُ: وطن بنا لینا۔ اسی سے ہے

کما جھوڑو، صفت عَذُوْب وَعَذِيْبٌ —
 عَثَّةٌ: باز رہنا — ه: منع کرنا۔ عَذَبَ
 السُّوْطَ: کوڑے میں پھنسا لگانا۔
 عَذِبَ (س) عَذْبًا الْمَاءَ: کالی والا ہونا۔
 صفت عَذِيْبٍ۔
 عَذِيْبٌ (ک) عَذُوْبَةٌ وَعَذُوْبٌ الشَّرَابِ:
 پھلوں وغیرہ کا ہونا۔
 اَعْتَذَبَ: ٹھیسے پانی پر پہنچنا۔ کالی۔ کوڑا کرکٹ
 دور کرنا۔ الْعَوْمُ: فٹے پانی والا ہونا۔ اللّٰهُ
 الْمَاءَ: پھنسا پانی کرنا۔ عَثَّةٌ: بازار پھنسنے
 الْأَمْرُ: منع کرنا۔ کما جاتا ہے "اَعْتَذِبَ نَفْسَكَ
 عَنْ كَذَا": اپنے نفس کو اس سے روکو۔
 عَذَبْتُهُ: عذاب دینا۔ عَذَبْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ: منع
 کرنا۔ عَذَبَ السُّوْطَ: کوڑے میں پھنسا لگانا۔
 الشَّيْءِ: روکنا۔
 اِخْتَذَبَ: غم سے کے دو ٹھیسے لگانا۔
 اِسْتَعَذَبَ: الشَّيْءِ: پھنسا وغیرہ پھنسا
 خورشوار پانی طلب کرنا۔ کما جاتا ہے "مَخْرَجٌ
 يَسْتَعَذِبُ الْمَاءَ" پھنسا پانی لانے کیلئے گیا
 عَنْ كَذَا: بازار رہنا۔
 الْعَذْبُ: مہ۔ خورشوار کما پانی۔ مَاءٌ عَذْبٌ:
 پھنسا پانی۔ الْعَذْبُ: ایک قسم کا روخت۔
 الْعَذْبُ: مہ۔ کوڑا کرکٹ۔ تِكا: ترازو کی
 زبان۔ و رشت کی شناساں۔ ہر چیز کے اطراف۔
 عَامَةٌ كاشمَلَةٌ: واحد عَذْبَةٌ۔
 الْعَذْبَةُ: تِكا) وَالْعَذْبَةُ وَالْعَذْبَةُ كَالْيَ
 جِ عَذْبَاتٍ۔
 الْعَاذِبُ: فا۔ وہ شخص کہ اس کے اور آسمان
 کے درمیان کوئی چیز حاصل نہ ہو۔
 مِنَ الدَّوَابِّ: وہ جانور جو کھڑا ہو اور کما پھنسا
 ہو۔ ج عَذُوْبٌ۔
 الْعَذُوْبُ: بمعنی عَذَابٌ — مِنَ الدَّوَابِّ:
 شدت جہاں اس کی وجہ سے چارے کو کچھوڑنے والا۔
 الْعَذَابُ: ہر وہ جانسان کیلئے باعث شدت
 ہو۔ تَکْلِيفٌ: سزا۔ ج اَعْتَذِيْبَةٌ۔
 عَذَجَ (ض) عَذَجًا: الْمَاءَ: پانی پینا —
 فَلَانًا: کھا دینا۔
 اِجْعَدَجَ: غیرت مند۔ بدخلق۔ بہت ملامت

کرنے والا۔
 عَذْرَةٌ (ض) عَذْرًا وَعَذْرًا وَعَذْرِي
 وَمَعْدُوْرَةٌ وَمَعْدُوْرَةٌ عَلٰی اَوْ فِيْ مَا صَنَعَ: الزَّام
 سے بری کرنا۔ عذر قبول کرنا۔
 عَذْرٌ (ض) عَذْرًا وَعَذْرًا: گناہ زیادہ ہونا)
 عَذْرًا الْعِلَامَ: لڑکے کا تختہ کرنا۔
 عَذْرٌ (ض ن) عَذْرًا وَعَذْرًا: الْقَوْمِ
 بِالْعِدَارِ: پوزی لگانا، ہاگ ڈور سے باہر حنا
 الصَّبِيْحِ الْمَعْدُوْرُ: حلق کار در لاجن ہونا
 اور تکلیف پہنچانا۔
 عَذْرٌ الصَّبِيْحِ: حلق کار در لاجن ہونا۔
 عَذْرٌ: عذر ثابت نہ ہونا — ه: عذر کرنے
 میں مبالغہ کرنا۔ عذر العلام: لڑکے کے ریشارہ پر
 سبز آنا۔ مَسْمُومًا: الذَّارِ: نشانات مٹانا
 — فِيْ الْأَمْرِ: کوشش کے بعد کوتاہی کرنا۔
 اَعْتَذَرَ لَهَا اَوْ عَلٰی مَا صَنَعَ: الزَّامَ سے بری
 کرنا — الرَّجُلُ: عذر ظاہر کرنا — مِنْ
 نَفْسِهِ: بکھرت گناہ کرنا۔ اِنصاف کرنا — لَهَا
 الْأَمْرُ: کوتاہی کرنا اور کوشش نہ کرنے کے باوجود
 کوشش کرنے والا سمجھنا — الْقَوْمِ: پوزی
 باہر حنا، ہاگ ڈور باہر حنا — الْعِلَامَ: لڑکے کا
 تختہ کرنا — ه: فِيْ ظَهْرِهِ: بار کبھی ڈالنا۔ کما
 جاتا ہے "مَضْرُوْبَةٌ حَتّٰى اَعْتَذَرَ مَقْتَنَةً" مارا یہاں
 تک کہ پیچھے ہر زخم کے نشانات ڈال دیئے —
 بِفُلَانٍ: زخم کا نشان چھوڑنا۔ کما جاتا ہے "مَضْرُوْبٌ
 فَلَانٌ فَأَعْتَذَرَ" یعنی مارتے مارتے ملامت کے
 قریب پہنچا دیا گیا۔ اَعْتَذَرَتِ الْمَدَائِجُ: بکھرت پلیدی
 والا ہونا۔
 عَادَرٌ مَعَادَرَةٌ: عذر نہ ثابت ہونا۔
 تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔ بازار رہنا۔
 عَنْ الْأَمْرِ: پیچھے ہٹنا — التَّوَسُّمُ: مٹا
 الرَّجُلُ: اپنے لیے حجت کرنا۔ بھاگنا
 الشَّيْءِ: پلیدی سے تھمنا — فَلَانٌ
 مِنَ الذَّنْبِ: گناہ سے بری ہونا۔
 اِخْتَذَرَ عَنْ وَمِنْ فَعْلِهِ: عذر بیان کرنا —
 عَنْ فَلَانٍ: کسی کے عذر قبول کرنے کو کہنا۔
 الرَّجُلُ: صاحب عذر ہونا — إِلَيْهِ: عذر پیش
 کرنا — التَّوَسُّمُ: نشان مٹانا۔

اِسْتَعْتَذَرَ إِلَيْهِ: عذر پیش کرنا۔
 الْعَذْرُ: حجت جس کی بنا پر عذر کیا جائے۔ ج
 اَعْتَذَرَ: طلبہ۔ کامیابی۔ اور اسی سے ہے جو جنگ
 کے موقع پر کما جاتا ہے "لِصْنِ الْعَذْرِ" یعنی کسی
 کے لیے طلبہ ہے اور کما جاتا ہے "هُوَ أَبُو عَذْرٍ
 هَذَا الْكَلَامِ" وہ اس کلام کا پہلا بولنے والا ہے
 "الْهُوِيُّ الْعَذْرِيُّ" پاکیزہ محبت۔

الْعِدَارُ: پوزی۔ ہاگ ڈور۔ ج عذر ریشارہ۔
 ریشارہ سے پرکان کے مشابہت ہاگ۔ کیا کما جاتا ہے
 "تَحْلَعُ عِدَارَةً" و "هُوَ حَلِيْبُ الْعِدَارِ" ن یعنی
 وہ اپنی خواہشات کا پابند ہے اور گمراہیوں میں
 منہمک ہے اور اپنے قول و فعل میں کوئی پروا
 نہیں کرتا کہ گویا کہ بلا رستی کے جانور ہے۔ "لَقَوِي
 عِدَارَةٌ عَثَّةٌ" یعنی تا فرانی کی العذارِ مِنَ
 التَّضَلُّلِ: تیر کے پھل کے دونوں طرف کی
 دھار۔ العذارِ: تختہ کا یا تعمیر مکان کا کمانا۔

العِدْرَةُ: عذر ج عَذْرٌ۔
 الْعِدْرَةُ: بکارت۔ کوئی علامت جو تیز رفتار
 گھوڑے کو نظریہ سے پہچاننے کے لیے اس کی
 پیشانی پر باندھا جائے۔ ہاگ کا گھما۔ گھوڑے کی
 گردن کے بال۔ العِدْرَةُ: پیشانی۔ تختہ کا چھڑا۔
 ایک ستارہ کہ جب وہ نکلتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی
 ہے۔ حلق کار در ج عَذْرٌ۔

العِدْرَةُ: پانچواں۔ تروی حصہ جو گیہوں سے
 نکلے۔ مکان کے سامنے کا صحن ج عَذْرَةُ۔
 الْعَاذِرُ: فا۔ نشان زخم) — وَالْعَاذِرَةُ
 پانچواں۔ الْعَاذِرُ: وہ رگ جس سے استحاضہ کا
 خون آتا ہے۔

العَذِيْبُ: بمعنی عَاذِرٌ۔ مددگار ج عَذْرٌ مَوْتٌ
 عَذِيْبَةٌ: العَذِيْبُ وَالْعَذِيْبَةُ: کسی نئی خوشی کا
 کمانا۔ العَذِيْبَةُ: نشان زخم۔
 الْعَاذِرُ: گلے کار در۔ علامت ج عَوَاذِرُ۔
 الإِعْتَذَارُ: کسی نئی خوشی کا کمانا۔

العَذْرَاءُ: باکرہ۔ و ریشارہ ج عَذْرَاوِي
 وَعَذْرَائِي وَعَذْرَاوَاتٍ: لقب سیدہ مریم رضی اللہ
 عنہا۔

العَذْرِي وَالْمَعْدُوْرَةُ وَالْمَعْدُوْرَةُ
 وَالْمَعْدُوْرَةُ: عذر۔ ہمان۔ ج مَعْدُوْرٌ

عَذْرًا (ض) عَزَّازًا وَعَذْرًا مُعَاوَةً وَ عَزَّازًا الْعَظِيمُ: شتر مرغ کا بیٹا۔
 أَعْوَبُ: الدَّاءُ: مَكان كَانَتْ فِيهِ وَاللَّهُوَاتُ۔
 تَعَاوَزَ: نیند سے ہوتے ہوئے بیدار ہونا۔
 إِعْتَوَزَهُ: وَاعْتَوَزَهُ إِعْتِرَازًا: بغیر سوال کے بخشش کے لیے آنا۔
 اسْتَعَوَزَهُمُ الْعَزَبُ: خارش پھیلنا۔
 الْعَاوِزُ وَالْعَاوِزَةُ: منحوس مرد۔ قوم پر بے عزتی کرنے والا۔ بے کوبان کا اونٹ۔
 الْعُرْوُ وَالْعُرْوُ: خارش۔
 الْعَرَّ: خارش۔ خارش۔ عیب۔ بُرَائِي: جلدی دودھ چھڑایا ہوا بچہ۔
 الْعَرَّةُ: اسم مرءة۔ مؤنث الْعَرَّةُ: جبک کی سختی۔ بُرِي عَادَت: عیب۔
 الْعَرَّةُ: خارش۔ پرندے کی بیٹ۔ لڑکا۔
 الْعَرَّةُ: خارش۔ لڑکی۔ پرندے کی بیٹ۔ چنگلی۔
 گور۔ کوبان کی چربی۔ مکروہ بات پہنچنا۔ گناہ۔ جنون جو انسان کو لاحق ہو۔ کہا جاتا ہے "بہ عَرَّةً" یعنی اس کے ساتھ جنون ہے۔
 الْأَعْوَزُ: خارش مریا اونٹ۔ مؤنث عَزَّاءُ ج عَزْوُ الْعَزَّاءُ: لڑکی۔
 الْعُرَا: ایک پھول خوشبودار جس کا نام گداز چم ہے۔ جنگلی زرخس۔ واحد عَزْوَاةٌ۔
 الْعَزَاةُ: قصاص۔ خون کا بدلہ۔
 الْعَزَّاءُ: گناہ۔ قصور۔
 الْعَزَاةُ: بُدِي: سختی۔ بلندی۔ بد خلقی۔
 الْعَرْوَةُ: اجنبی۔
 الْمُعَوِّزَةُ: گناہ۔ تکلیف۔ بدی۔ نواہن۔ قصور۔ عیب۔ امر قبیح۔ سختی۔ گالی۔ غصہ سے چہرے کے رنگ کی تبدیلی۔ ستارہ نکلس کے علاوہ نام ایک شہر کا۔ مَعَوِّزَةُ الْعَجْنِشُ: لشکر جو لاطمی سے قوم کی کھیتی کمالے۔
 الْمُعْتَوِّزُ: فقیر۔ بغیر سوال کے ہوئے بخشش کے ڈرے ہوئے والا۔
 عَوَبُ (ک) عَوْبَةٌ وَعَوْبِيَّةٌ وَعَوْبَانَةٌ وَعَوْبَاتٌ وَعَوْبَاتُ: فصیح عربی زبان ہونا۔ فصیح عربی ہونا۔
 عَوْبُ (س) عَوْبَانٌ: بگڑے ہوئے معصوم والا ہونا

الْعُدْلُ وَالْعُدْلُ وَالْتَعْدَالُ: ملامت کرنا۔ أَيَّامٌ عُذْلٌ وَمُعْتَدِلَاتٌ: سخت گرم دن۔
 الْعُدَّةُ وَالْعُدُولُ وَالْعُدَالَةُ: بست ملامت کرنے والا۔
 الْعُدَالَةُ: مؤنث عُذْبَانٌ: سرین۔
 الْعَادِلُ: نا۔ رگ خون استخاضہ۔
 الْمُعْتَدِلُ: سفہ۔ فیاض کی وجہ سے ملامت کردہ شدہ۔
 عُذْلَجُ السَّقَاةِ: مشکیزہ بھرنا۔ الْوَالِدَةُ وَعُذْرَةٌ: لڑکے کو اچھی غذا دینا۔
 عُضْبُ عُدْلَاجٍ: خوشگوار زندگی۔
 الْعُدْلُوجُ: اچھی غذا سے تربیت یافتہ بچہ۔
 الْمُعْتَدِلُجُ: پرگوشٹ۔ خراب صورت جسم والا۔ مؤنث مُعْتَدِلَةٌ۔
 عَذَمٌ (ض) عَذَمًا الْفَرَسُ: گھوڑے کا کاکٹ کھانا۔ الزُّجُلُ: اپنے آپ سے دفع کرنا۔ ہ: ملامت کرنا۔
 عَذَمٌ (س) عَذَمًا: گالی دینا۔
 أَعْدَمَهُ عَنْ نَفْسِهِ: روکنا۔ منع کرنا۔
 الْعَذْوَمُ: بست کاکٹ کھانے والا۔ بست ملامت کرنے والا ج عَذْمُ۔
 الْعَذَامُ: بست کاکٹ کھانے والا۔ بست ملامت کرنے والا۔
 الْعَالِيَةُ مَلَامَةٌ: بغیر محصل کی کجگوار کورسٹ۔ ج عَذَامٌ۔
 عَذَا يَعْذُو عَذْوًا وَعَذِي يَعْذِي عَذْيًا وَعَذُو يَعْذُو عَذَاوَةً الْمَكَانُ: اچھی ہوا والا ہونا۔ پانی اور امراض وبائیہ سے ڈر ہونا۔
 اسْتَعَذَى الْمَكَانُ: اچھی ہوا والا سمجھنا۔
 اَرْضٌ عَادِيَةٌ وَعَادِيَةٌ وَعَادِيَةٌ وَعَذَاةٌ: عمدہ آب و ہوا والی زمین۔
 الْعِذْيُ: کھیت جس کی سیرابی صرف بارش سے ہو۔ ج اعداء۔
 عَزَّ (ض) عَزَّوًا وَعَزَّ الْجَمَلُ: خارش ہونا۔ صفت عَزَّوًا وَعَزَّوًا وَمَعَزَّوَرٌ۔
 عَزَّ (ن) عَزَّأً: تمکین کرنا۔ سائل بن کر آنا۔
 عَزَّوَةً بِشَرِّ: بُرَائِي سے لوٹ کرنا۔ (س) وَعَزَّوَرٌ الْأَرْضُ: زمین میں کھا ڈالنا۔

المُعَذَّرُ: طرز۔ بہانہ۔ ج مُعَاذِيرٌ۔
 عَذْفٌ (ض) عَذْفًا مِنَ الطَّعَامِ: چکھنا۔
 تَعَذَّفُ الطَّعَامُ: کھانا۔ کہا جاتا ہے "مَا ذَفْتُ عَذْفًا وَلَا عَذْوْفًا وَلَا عَذْفًا" یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔
 سَمَّ عَذْفٌ: زہر قاتل۔
 الْعَذْفُ: شیر۔ مضبوط اونٹ۔ ج عَذْفِيَّةٌ۔
 عَذْوْفٌ: مضبوط اونٹ۔
 عَذْقٌ (ض) عَذْقًا وَعَذَقٌ التَّخْلَةُ: ورسٹ خرما کی شاخ کھانا۔ عَذَقٌ فَلَانًا بِشَرِّ: کسی کو تمسٹ لگانا۔ عذقہ الی کَذَا: منسوب کرنا۔
 عَذَقِي وَأَعَذَقُ الشَّاةَ: بکری کے رنگ کے خلاف کسی دوسرے رنگ کے اون سے نشان لگانا۔
 إِعْتَذَقِي: دو ٹپلے لگانا۔ إِعْتَذَقِي كَذَا: کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا۔
 الْعَاذِقُ: نا۔ وہ شخص جو ورسٹ خرما کی دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ ج عَاذِقُونَ وَعَادِقٌ۔
 الْعَذْقُ: چل دار کجگوار کورسٹ۔ ج أَعَذَقِي وَعَذَقِي۔
 الْعِذْقُ: انگور کا پتھا۔ مِنْ التَّخْلِ: کجگوار کا خوش ج عَذْوِقٌ وَأَعَذَقِي: الْعِذْقُ: شاخ دار شئی۔ عزت۔ کہا جاتا ہے "لَفِي بَنِي فَلَانٍ عِذْقٌ كَعَمَلٍ" بنی فلاں میں اتھالی عزت ہے۔
 الْعِذْقِيُّ: ہوشیار۔ چرب زبان۔ طَيِّبٌ عِذْقِيٌّ: حیرت انگیز۔
 الْعِلْقَةُ وَالْعِذْقَةُ: بکری کے رنگ کے خلاف اون کا نشان۔
 عَذْلَةٌ (ن) عَذْلًا وَعَذْلَةٌ: ملامت کرنا۔ صفت عَلَالٌ ج عُدْلٌ وَعُدَالٌ وَعَذْلَةٌ وَعَالِيُونَ مؤنث عَادِلَةٌ ج عَوَائِلُ وَ عَادِلَاتٌ۔
 تَعَادَلُ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ تَعَمَّلُ وَاعْتَدَلُ: اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ ملامت سے متاثر ہونا۔ إِعْتَدَلَ الْيَوْمُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ إِعْتَدَلَ الزُّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ: پتھا ارادہ کرنا۔

المَعْدَةُ: معدہ کا فاسد ہونا۔
 الخُوح: سوجنا اور پیپ والا ہونا۔ الخُوحُ: کنوئیں میں پانی بہتا ہوتا۔ الخُوحُ: لکت کے بعد صبح ہونا۔
 عَرَبٌ (ض) عَرَبًا: الطعام: کھانا۔
 عَرَبٌ: المنطق: اعرابی غلطی سے پاک کرنا۔
 الكتاب ونحوه: عربی میں ترجمہ کرنا۔
 عليه فعله: قاحت تانا۔ قَوْلُهُ: زور کرنا غنہ لسانہ: فصیح ہونا۔ مراد کو ظاہر کرنا۔
 عني صاحبہ: اپنے صاحب کی طرف سے بولنا اور حجت بیان کرنا۔ الخُوحُ: عربی گھوڑا لیما: المشتقوی بیان دینا۔
 الخُوحُ: قبح بات بولنا۔ بَحْجَبِيهِ: دلیل کو اچھی طرح بیان کرنا۔ الاسم الأضْحَمُّ: عربی کرنا۔
 الخُوحُ الشئ: ظاہر کرنا۔ عني صاحبہ: صاف بیان کرنا۔ كَلَامًا: فصاحت سے بولنا اور غلطی نہ کرنا۔
 بالكلام: بیان کرنا۔ بَحْجَبِيهِ: عمدہ دلیل لانا۔
 الاسم الأعجمي: عربی بنا کرنا۔
 الكلمه: اعراب لگانا۔ الفرض: دو ڈرانا۔
 الفرض الغريب: جنسانے سے عربی گھوڑے کو غیر عربی سے ممتاز کرنا۔
 الخُوحُ: اونٹ اور عربی گھوڑوں کا مالک ہونا۔
 المشتقوي: بیجانہ دینا۔ الخُوحُ: کلام میں غلطی نہ کرنا۔ قس بات بولنا۔
 عَرَبٌ: اخلاقی عرب کو اختیار کرنا۔ ان کی مطابقت کرنا۔ دیہات میں اقامت کرنا۔ اور اعرابی بننا۔
 استغروب: عربوں میں داخل ہو جانا۔ قبح بات بولنا۔
 العَرَبُ والعَرَبُ: باشندگانِ تلک عرب۔ ج عَرَبٌ وعَرَبٌ وعَرَبٌ: العَرَبُ والعَرَبِيَّةُ والعَرَبِيَّةُ والعَرَبِيَّةُ: خالص عربی لوگ۔ اور لفظ عرب اس موقع پر طائفہ کی تائید میں مؤنث ہے۔
 العَرَبُ والمُعَرَّبَةُ والمُعَرَّبَةُ: غیر ملکی لوگ جو عرب میں آکر آباد ہو گئے ہوں۔

العَرَبِيَّةُ والعَرَبِيَّةُ: قس ویدگرہ۔
 العَرَبُ والعَرَبُ: مِنَ الْمَاءِ: کثیر صاف پانی۔
 زَجَلٌ عَرَبٌ: تیز زبان مرد۔ بَشْرٌ عَرَبِيٌّ: بہت پانی والا کواں۔ مَعْدَةُ عَرَبِيَّةٌ: فاسد معدہ۔
 زَجَلٌ عَرَبَانٌ: فصیح مرد۔
 زَجَلٌ عَرَبَانِيٌّ اللِّسَانُ: فصیح مرد۔
 العَرَبِيَّةُ: خالص عرب کا باشندہ۔ اگرچہ قیام کسی دوسرے ملک میں ہو۔
 العَرَبِيَّةُ: مؤنث العَرَبِيَّةُ: عربی زبان۔
 الأعرابي: عرب کا دیہاتی۔
 الأعراب: عرب دیہات کے باشندے۔ واحد أعرابي۔
 العَرَبِيَّةُ: تیز بننے والی نر۔ نفس۔ ج عَرَبٌ وعَرَبَاتٌ: العَرَبَاتُ: وہ کشتیاں جو عیسائیوں کے دور میں وجہ میں بندھی ہوئی رہتی تھیں جن سے پل کا کام لیا جاتا تھا اور اب اس لفظ کا اطلاق بجا پر ہوتا ہے۔
 العَرَبُ: عِنْدَ التَّصَاوِي: جب کسی کو پتھر دیا جاتا ہے تو عیسائی رسم کے مطابق ایک مقدس شخص اس کا باپ بنتا ہے وہ "عَرَبٌ" اور جو ماں بنتی ہے وہ "عَرَبَانِيَّةٌ" کہلاتی ہے۔ جنہیں انگریزی میں Good Father and Good Mother کہتے ہیں۔
 الأعرابيَّة: عربی دیہاتی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَعْرَبُهُمْ أَحْسَبًا" حسب کے لحاظ سے خالص وأَعْرَبُهُمْ أَيْسَرًا: اور زبان کے لحاظ سے فصیح خَيْلٌ أو إِبِلٌ عَرَبٌ وأَعْرَبٌ: خاص عربی گھوڑے یا اونٹ۔
 العَرَبَانُ: عرب۔
 العَرَبُ والعَرَبِيَّةُ مِنَ النِّسَاءِ: بہت ہنسنے والی۔ زوج کی نافرمان۔ عَرَبِيَّةٌ أَوْ رِقْمٌ العَرَبِيَّةُ: جمع کا دن۔ کہا جاتا ہے "مَا بِالْبَدَا عَرَبٌ أو عَرَبِيَّةٌ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔
 الاسم المُعَرَّبُ: عربی بنایا ہوا اسم۔ جیسے ریشم سے ابرسم۔
 عَرَبِيَّةٌ عَرَبِيَّةٌ: بدخلق ہونا۔ صفت عربیہ و مُعَرَّبَةٌ: عربیہ۔

العَرَبِيَّةُ والعَرَبِيَّةُ: ایک سخت چیز۔ کہا جاتا ہے "غَضِبَ غَضَبًا عَرَبِيًّا بَعْدَ الْبَحْرِ" سخت غضبناک ہوا۔ نرساں۔
 عَرَبِيَّةٌ: بیجانہ دینا۔
 العَرَبِيَّةُ والعَرَبِيَّةُ والعَرَبِيَّةُ: بیجانہ۔ سالی ج عَرَبِيَّةٌ: عوام زَعْبُونٌ: کہتے ہیں۔
 عَرَبٌ (ض ن ف) الوضغ: نیزے کا سخت ہونا۔ الخُوحُ ونحوه: بجلی وغیرہ کا چمکانا۔ بَرَقٌ أَوْ رَمَحٌ عَرَبَاتٌ: بہت حرکت کرنے والا تیز یا بجلی۔
 العَرَبِيَّةُ: ناک یا ناک کا نرم حصہ۔ اوپر کے ہونٹ کے بیچ کا گڑھا۔
 العَرَبِيَّةُ: ناک کا اگلا حصہ۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ عَلَى عَرَبِيَّتِهِ" یعنی اس کے مزاج کے خلاف کیا۔
 عَرَجٌ (ض ن) عَرَجًا وَمَعْرَجًا فِي السَّلْمِ: یزہمی پر چرنا۔ عَنِ الشَّيْءِ وَفِيهِ: چڑھنا۔ عَرَجٌ بِهِ: چڑھایا جاتا۔
 عَرَجٌ وَعَرَجٌ (س ف) عَرَجًا: لنگر ہونا۔ صفت أَعْرَجٌ ج عَرَجٌ وعَرَجَانٌ مؤنث عَرَجَاءُ۔
 عَرَجَتْ (س) وعَرَجَتْ (ك) عَرَجًا الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب ہونے کی طرف ہائل ہونا۔
 عَرَجٌ: ٹھہرنا۔ ایک جانب سے دوسرے جانب چمکانا۔ عَنِ الشَّيْءِ: چھوڑنا اور تجاوز کرنا۔
 العَرَبُ: عَجِيبَةٌ دھاری دار بنانا۔
 البِنَاءُ أو التَّنْهَرُ: جھکاؤ کے ساتھ بنانا۔
 الخُوحُ: آفتاب کے غائب ہونے کے وقت داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے "فَلَمَّا لَا يَمْرُجُ عَلَى قَوْلِهِ" یعنی فلاں آدمی کی بات پر احماد نہیں کیا جاتا۔ (ع) وَقَعْرَجٌ: جھکانا۔ عَنِ الْمَكَانِ: سواری کے جالور کو باز ہونا اور اقامت کرنا۔
 أَعْرَجٌ: آفتاب کے غائب ہونے کے وقت داخل ہونا۔ أَعْرَجَهُ اللَّهُ: لنگر کر دینا۔
 تَعَارَجٌ: بگلف لنگر بنانا۔
 أَعْرَجٌ: الشَّيْءُ: مڑنا۔ ٹیڑھا ہونا۔
 الظَّرِيقُ: جھکانا۔ عَنِ الشَّيْءِ: تجاوز کرنا۔

محوڑ دنا _____ القَوْمِ عَنِ الظَّرْفِيِّ : بھگ جانا۔

العَزَجُ والعَزَجَانُ - لنگڑاٹھ، لنگڑے کی حال۔

العَزَجَاءُ - مؤنث الأَعْرَجِ - لنگڑی عورت۔

العَزَجَةُ والعَزَجَةُ جس پر توفیق کیا جائے۔

أَمْوَرٌ عَرِيضٌ غَيْرٌ مُتَّكِمٌ كَامٍ - العَزْوُجَاءُ - دوپہر دن میں ایک مرتبہ کھانا۔

العِزْرَجُ والمِعْرَجُ والمِعْرَجُ والمِعْرَجُ - سیرگی چڑھنے کی جگہ معارج و معارج۔

المُعْرَجُ مِنَ الزَّوَادِي - وادی کا موڑ۔

عَزَجَنَ العُزْبُ : کپڑے پر شاخوں کی شکل بنانا۔

العَزْجُونُ - کھجور کے گٹھے کی جڑ جو شیرسی ہوتی ہے اور گٹھے کو کائے پر درخت پر خشک ہو کر باقی رہتی ہے۔

العَزْجُو العَزْجُو - یعنی عرجون۔

عَزْدَانُ (ن) عَزْدَانُ الحَجَرِ - پتھر کو ڈور بچھکانا۔

(عَزْدَانُ وَأَعْرَدُ) التَّبَاتُ أَوْ التَّابُ : پورے یا دانت کا پورا نکل آنا اور سخت ہونا۔

السَّجْرُ : درخت کا موٹا اور بڑا ہونا۔

عَرْدَا (س) عَرْدَا وَعَرْدُ - بھاگنا۔ مرض کے بعد جسم کا قوی ہونا۔

عَرْدَا السَّهْمُ فِي الزَّمِيَةِ : تیر کا پار ہو جانا۔

عَرْدَا التَّخْمُ : ستارے کا بلند ہونا۔

آسمان کے وسط میں بچھنے کے بعد ڈوبنے کی طرف ساں ہونا۔

عَرْدَا الزَّجْلُ : راستہ کو چھوڑ کر مڑ جانا۔

العَزْدُو العَرْدُو العَزْدُو - بہت سخت۔

العَزَادَةُ : مادہ نڈی۔ حالت اور اسی سے ہے "هَوْنِي عَزَادَةٌ خَيْرٌ" وہ اچھی حالت میں ہے۔

العَزَادَةُ - پتھر بھینکنے کا آلہ عَزَادَاتُ العَرْبِ - طور طریقہ۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "هَذَا عَرْبِيَّةٌ" یہ اس کی عادت ہے۔

عَزْدَانَهُ - بچھاڑنا۔

العَزْدَانُ - بڑا سیلاب۔ بڑا شیر۔ عَزْدُ العَزْدَانُ - ثابت رہنے والی عزت۔

عَزْرَ (ض) عَزْرَا - الشَّقِيُّ : سختی سے کھینچنا۔

الزَّجْلُ : کسی کو لامت کرنا (عَزْرَا) (س) عَزْرَا الشَّقِيُّ : سخت ہونا۔ سکرنا۔

عَزْرَا - سکرنا۔ الشَّقِيُّ : پوشیدہ کرنا۔

عَزْرَاةٌ - دشمنی کرنا۔ مخالفت کرنا۔

عَزْرَاةٌ وَعَزْرَاةٌ الشَّقِيُّ : سکرنا۔

أَعْرَزَ الشَّقِيُّ : فاسد کرنا۔ بگاڑنا۔

تَعَزَّرَ عَلَيْهِ : دوشوار ہونا۔

إِسْتَعَزَّرَ الشَّقِيُّ : سکرنا۔ الزَّجْلُ : سخت ہونا۔

العَزْرَالُ - شیر کا مسکن۔ نالیڑ والے کامپان۔ جنگ کے موقع پر بادشاہ کے لیے چھوٹا سا مکان۔ سانپ کی عی۔ ٹی۔ دکان۔ لوگوں کی جماعت۔ منگیزے کا مٹہ۔ قوم عَزْرَالِیلُ : چوروں کا گروہ۔

العَزْرَمُ - پرانا سانپ۔

العَزْرَمُ والعَزْرَامُ والعَزْرَامُ : شیر۔

عَزْرَسَ (ن) عَزْرَسَا - خوشی میں رہنا۔

عَنْتٌ : بھرجانا۔ عَزْرَسَا وَعَزْرَسَا : جماع کرنا۔

عَزْرَسَ (ن) عَزْرَسَا - التَّبِيحُ : اونٹ کی گردن کو اگلے پاؤں سے بیٹھنے کی حالت میں باندھنا۔

عَرَضَ (س) عَرَضَا - الزَّجْلُ : آکرنا۔

بہ : لازم ہونا۔ سخت کرنا۔ وَفَتْ : بے خود ہونا۔ صفت عَرِشَ الشَّقِيُّ : سخت ہونا۔

الْحَشْرُ يَنْتَهِمُ : ہمیشہ رہنا۔

عَنْتٌ : بڑول ہونا۔

بِجَعٍ بِنَا : عَلِيٌّ مَا عِنْدَهُ : ہالارہنا اور بھل کرنا۔

أَعْرَسَ - دلن لانا۔ الشَّقِيُّ : لازم ہونا اور سخت کرنا۔

الزَّجْلُ : بچکی کے ایک پات کو دوسرے پر پھینے کیلئے رکھنا۔

بَاهِلُهُ : جماع کرنا (عَزْرَسَ) القَوْمِ : سفر میں آخرات میں آرام کے لیے اترنا۔

تَعَزَّرَسَ لِمَوْرَاتِهِ : فریفت ہونا۔

إِعْتَرَسَ القَوْمُ عَنْتَهُ : مشرق ہونا۔ جدا ہونا۔

العَزْرَسُ - مع۔ رشی۔ خیمہ کے بیچ کا کھمبار۔

والعَزْرَسُ) چھوٹا بچہ اونٹ کا۔ ج. أَعْرَسَ - العَزْرَسُ - دلن۔ عَزْرَسَ العَزْرَاةُ : دولہا۔ ج. أَعْرَسَ - اِن عَزْرَسَ نَعْلًا ج. تَبَاتَتْ عَزْرَسُ (قدرد) مؤنث دونوں کے لئے)

العَزْرَسُ والعَزْرَسُ - زفاف۔ ویسے کا کھانا۔ ج. أَعْرَسَ والعَزْرَسَاتُ - العَزْرَسُ - رشی جس سے اونٹ کو باندھا جائے۔

العَزْرَسُ - دولہا دلن۔ جمع کے لیے کہا جاتا ہے "هَمْ عَزْرَسٌ وَهَمْ عَزْرَائِسُ" اور التماس کے دفع کرنے کے لیے عورت پر عَزْرَسَةٌ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ج. عَزْرَائِسُ - العَزْرَائِسُ - عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ : دلن۔

العَزْرَائِسُ والعَزْرَائِسَةُ - شیر کی بھائی۔

العَزْرَائِسُ والعَزْرَائِسُ - مؤنث کے چھوٹے بچوں کو بیچنے والا۔

العَزْرَسُ والعَزْرَسُ - آخرات میں آرام لینے کے لیے اترنے کی جگہ۔

عَزْرَسَ (ن) عَزْرَسَا - لکڑی کا مکان بنانا۔

التَّبِيحُ : گھربانا۔ العَزْرَسُ : جمع بنانا۔

تَحْتُ بِنَا : التَّبِيحُ : کنوئیں کے ٹپے حصہ کو قد کے برابر پتھر سے بنا کر تیر کو لکڑی سے بنانا (عَزْرَسَا وَعَزْرَسَا) : العَزْرَسُ : انگور کی تیل کو ٹی پر چڑھانا۔

عَزْرَسَ (ض) عَزْرَسَا بِالْمَسْكَانِ : اقامت کرنا۔

عَرِشَ (س) عَرِشَا وَعَرِشَا - تھم ہونا۔

بَعْرِيْبِهِ : سخت پکڑنا۔ عَنْتٌ : بھرجانا۔ چھوڑنا۔

عَزْرَسَ الكَزْمُ : انگور کی تیل کا ٹی پر چڑھانا۔

الكَزْمُ : انگور کی تیل کا ٹی پر چڑھانا۔

التَّبِيحُ : جمع بلند کرنا۔ الظَّالِمُ : بلند ہو کر بازوؤں سے سایہ کرنا (عَزْرَسَ) عَزْرَسَا - مٹی بنانا۔ سایہ لینے کے لیے چھوٹا بنانا۔

تَعَزَّرَسَ وَعَزْرَسَ بِالْأَمْوَرِ : چھڑا رہنا۔

بِالْمَسْكَانِ : ثابت رہنا۔ تَعَزَّرَسَ الدَّابَّةُ : سوار ہونا۔

إِعْتَرَسَ - مٹی بنانا۔ سایہ لینے کے لیے چھوٹا بنانا۔

إِعْتَرَسَتْ النَّوْءُ عَلَى الحَشْبِ - انگور کی تیل کا چھٹا اور لگانا۔

وَإِعْرَوسَ الدَّابَّةُ : سوار ہونا۔

العَزْرَسُ - تخت شایہ۔ العَزْرَسُ : کسی چیز کا رکن۔ کسی چیز کا توام۔ کہا جاتا ہے "فُلٌ عَزْرَسَةٌ"

یعنی اس کی عزت جاتی رہی اور اس کا معاملہ کمزور ہو گیا۔ **العروض من البنیت**: حمت۔ **من القوم**: رکبیں۔ سردار۔ **العروض**: کلوی جس سے کنوئیں کے اوپر کا حصہ بنایا جائے۔ شامیانہ۔ ٹیمہ۔ مکان جس میں سایہ لیا جائے۔ محل۔ قدم کی پشت پر بلند حصہ۔ کنوئیں کا من عرض **العظائر**: گھونسلہ۔ **عرض الكؤم**: انگور کی ٹٹی ج **اعراض وغروض وعرضة**۔ **العروض**: جموں پڑی۔ جموں داری۔ جانوروں کو سردی سے بچانے کا ہارہ۔ انگور کی ٹٹی۔ **ج عروض** اور **العروضة** پاکی۔

عروض (ض) عروضا وعروض (س) عروضا البنزی: بجلی کا پرانہ چمکنا۔ صفت **عروض** **عروض**۔ **الزجل**: شٹلا میں ہوتا۔

عروض التجویز: اونٹ سدا لینا۔ **اللحم**: گوشت کو میدان میں شگ ہونے کیلئے ڈالنا۔

اعروض الشئ: مضرب ہوتا۔ **تعروض بالمکان**: اقامت کرنا۔

اعروض الغلام: کھیل کود کرنا۔ خوش ہونا۔ **الجفد**: کمال کا پھرنا۔ **البنزی**: بجلی کا پرانہ چمکنا۔ **الزجل**: اچھلنا۔ کودنا۔

العروض: گھر کا من۔ ہر وہ جگہ جس میں کوئی عمارت نہ ہو۔ **ج عروضا** و **اعراضا** و **عروضات**۔

العروض: بہت پرانہہ بچنے والی بجلی۔ گرج اور محل والا بادل۔ نرم نیزہ۔

العروض: لیا جانے۔ **عروضة**: **عروضة** سمجھ کر لیا جاوے۔

العروضوف و **العروضاف**: پلان کی بیج۔ **ج** **عروضاف**۔ **العروضاف**: پٹھے کا کوڑا۔ سوڑی نرم ہڈی۔

العروض: بہت کھانے والا۔ خرم و شادمان۔ **العروض**: لاغر۔ مضبوط قوی۔ شیر۔

العروض و **العروض**: شیر۔ **العروض**: بجلی۔

عروض (ض) عروضا۔ **الشئ** **فعلان**: پیش کرنا۔ **الشئ** **علیہ**: دکھانا۔

المخاض **للمنیع** سامان کو فروخت کے لیے خریداروں کے سامنے کرنا۔ **العرض**: فرج کا جائز لینا۔ **لذمن** **حقیقہ** **تؤنا**: جن کے بدلے میں دینا۔ **عروض** **لذمن** **عارض** **من** **الحضی**: بخار لاحق ہونا۔ **القوم** **علی** **التنیف**: قوم کو تلوار سے مارنا۔ **الحصیر**: چٹائی بچھانا۔ کہا جاتا ہے "عروض عروض او عروض فلان" وہ فلاں کی چال چلا۔ **لا تعرض** **عروض فلان**: فلاں کو بڑائی سے یاد نہ کرو۔

عروض الزجل: بغیر کسی بیماری یا سبب کے مرنا۔ **العروض**: گھوڑے کا دوڑنے لگانا۔

عروض **لین** **عارض**: مجھے ایک سالغ نے روک دیا۔ **عروض (ض) وعروض (س) عروضا**۔ ظاہر ہونا اور ہمیشہ نہ رہنا۔

عروض (ض ن) عروضا **العروض علی** **الاناء** برتن پر کلوی کو چوڑائی میں رکھنا۔ **عروض**: بھنوں ہونا۔

عروض (ن) عروضا۔ **تکدین** یا ان کے اطراف میں جانا۔ **الکتاب**: زبانی پڑھنا۔

عروض (ک) جروضا و **عروضة**۔ چوڑا ہونا۔ صفت **عروض** و **عروض**۔

عروض **ولہ** **ویہ**: تعریض کرنا۔ کسی دوسرے پر ڈھال کے ہات کتنا۔ **الشئ**: چوڑا کرنا۔ **المخاض**: سامان کو درامہ و دانیر کے علاوہ سامان کے بدلے فروخت کرنا۔ **الکتاب**: مہم لکھنا۔ **الشئ** **لشئ**: مقلد کرنا کہا جاتا ہے "عروضت مالک للہلالک" تم نے اپنے مال کو برباد ہونے کے لیے پیش کر دیا۔

ہ **من** **تالیہ** **بکذا**: بدلہ دینا۔ **فلائ**: عمدہ رائے والا ہونا۔

اعروض **عنة**: روگردانی کرنا۔ **الشئ**: چوڑا کرنا۔ **المستألة**: لہا چوڑا سوال کرنا۔

لین **المکارم**: بہت فیاض ہونا۔ **الأفرو**: ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے "عروضة فاعروض" یعنی میں نے اسے ظاہر کیا پس وہ ظاہر ہو گیا۔ **الغوب**: وسیع ہونا۔ کہا جاتا ہے "اعروض لک الخیر" یعنی تمہیں خیر کرنے کی قدرت ہے جو "اعروض لک الظننہ فارمہ" تمہارے سامنے

ہر ن ظاہر ہوا پس اسے تمہارا۔

عازضة **مجازضة** و **عواضا**۔ پھر جانا۔ یکسو ہونا۔ **عازض** **الکتاب** **بالکتاب**: کتاب کا

کتاب سے مقابلہ کرنا۔ **الزجل**: کلام پر نقض دارو کرنا۔ مقاومت کرنا۔ دوسرے کی طرح کام کرنا۔

ہ **لین** **المسیرو**: طے میں برابری کرنا۔ **عازض** **الزجل**: راستہ میں ایک جانب ہونا۔ کہا جاتا ہے "عازضة فعرضة" اس نے

معارضہ کرنے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔ **تعروض** **الأمر** و **لأمر** و **والی** **الأمر**: درپے ہونا۔ طلب کرنا۔ **الشئ**: ٹیڑھا ہونا۔ ایک

جانب ظاہر کرنا۔ فاسد ہونا۔ **تعارض**۔ **الزجلان**: ایک دوسرے سے

مقابلہ کرنا۔ **اعترض**۔ چوڑائی میں ہونا۔ **لذ**: منع کرنا۔ **التبیر**: سرکش اونٹ پر سوار ہونا۔ **لذ** **بشئ**: سامنے آ کر تھمنا۔

عروضة۔ عیب نکالنا۔ آبرو گھٹانا۔ **ذون** **الشئ**: حائل ہونا۔ روک بنا۔ **القائد** **الجند**: ایک ایک کر کے پیش کرنا۔ **علیہ** **من** **قول** **او** **لفعل**: اعتراض کرنا۔ خطا کی جانب منسوب کرنا۔ **الشئ**: تکلف کرنا۔ کہا جاتا ہے "عروضة فاعترض" اس نے اس کو پیش کیا پس وہ پیش ہوا۔

استعروض۔ چوڑی چیز طلب کرنا۔ **الشئ**: پیش کرنے کو کتنا۔ **ہ**: کسی سے کتنا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دکھاؤ۔

القوم: بغیر دریافت حال کے قتل کرنا۔ کہا جاتا ہے "استعروض یطعی من أقتل أو أذبر" یعنی بغیر سوال کے ہر آنے جانے والے کو دیتا ہے۔

استعروض **العروب**: عربوں میں سے جس سے چاہو دریافت کرلو۔ **العروض**۔ اسباب۔ سامان۔ **ج** **عروض** **پھاڑیا** **پھاڑیا** **کاپلو**۔ بڑا ٹکڑا۔ چوڑائی۔ وسعت۔ جنوں۔

داوی۔ بہت ٹڈیاں۔ بادل۔ **من** **اللیل**: رات کا ایک حصہ۔ **ج** **عروض** و **عروض** و **عروض**۔

عروض۔ جزا سزا کا۔ **العروض**۔ التجا۔ گزارش۔ کہا جاتا ہے **الشئ**

العَارِضَةُ: عمدہ رائے اور کلام کی تفسیح۔ کہا جاتا ہے "فَلَا نَ ذُو عَارِضَةٍ" ملا صاحب بیان اور فی البدیہہ کہنے والا اور فصیح ہے۔

العَرِيضُ: چوڑا۔ ج عرض۔ دعاء عَرِيضُ بمت زیادہ دعا "هُوَ عَرِيضُ الْبَطَانِ" یعنی وہ مالدار اور غنی ہے۔ العَرِيضُ: ضعیف۔

العَرِيضَةُ: مؤنث العَرِيضُ: کیفیت کا پیش کرتا۔

التَّعَرِيضُ فِي الْكَلَامِ: دوسرے پر احوال کے بات کہنا۔

المِعْرَاضُ: توریہ کرنا۔ مِنَ الْكَلَامِ: مضمون۔ بغيرِ كاتير بس کا درمیانی حصہ موٹا ہو۔ ج معَارِضُ

"المَعْرُضُ: پیش کرنے کی جگہ۔ مصنوعات و محترمت کے نمائش کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "ذَكَرْتُهُ فِي مَعْرُضٍ كَذَا"

المَعْرُضُ: ذمّن کی شب عروسی کا کپڑا۔

الْكَلَامُ الْمَعْرُضُ: مہم کلام ج معَارِضُ و معَارِضُ: کہا جاتا ہے "إِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمَنْذُوحَةً عَنِ الْكِبْذِ" قریض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔

المَعْرُوضُ: حکام کے سامنے پیش کرنے کی عرضی۔

عَرَّطَ (ن) عَرَّطًا وَعَرَّطَ عَرَّضَ فَلَانٌ: نیت کرنا۔ اعترط الزجّل: زور چلا جانا۔

عَرَّطُوا أُمَّ عَرَّطُوا أُمَّ الْعَرَّطِ: بچھو۔

العَرَّطِيْنَا: ایک درخت کی جڑ جس کا نام حموز مریم ہے۔

عَرَّوْ: القاروْرة: شیشی بند کرنا۔ کاک لگانا۔ کاک علیحدہ کرنا۔ العَرَّوْ: آکھ پھوڑنا۔

العَرَّوْ: سرو کے مانند ایک درخت۔ واحد عَرَّوْة۔

العَرَّوْ: بدخلقی۔ کہا جاتا ہے "زَكِبَ عَرَّوْهُ" یعنی بدخلق ہوا۔ دونوں قسموں کے بیچ کا حصہ۔ بیڑو۔

العَرَّوْةُ وَالْعَرَّوْةُ: شیشی۔ بوتل کی ڈاٹ۔

عَرَّوْةُ الْجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی ج عَرَّاعِر۔

العَرَّاعِرُ: شریف۔ سردار۔ مِنَ الْإِبِلِ

عَرَّضًا: یعنی بغیر سوچے سمجھے ہوئے کیا۔

العَرِضَةُ: پیش کرنے کی نوعیت العَرِضُ کا مؤنث۔ یعنی لوگوں سے بیہودگی سے پیش آنے والی عورت۔

العَرِضَةُ: ہمت۔ کشتی لڑانے کا داؤ۔ ارادہ۔ نشانہ۔ قوت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَرِضَةٌ لِكَذَا" وہ اس کی طاقت رکھتا ہے "هُوَ عَرِضَةٌ لِلنَّاسِ" وہ لوگوں کے طعن و تفسیح کا نشانہ ہے "هُوَ عَرِضَةٌ لِلْكَلَامِ" وہ لوگوں کے اعتراضات کا نشانہ ہے و "جَعَلْتُهُ عَرِضَةً" میں نے اس کو نشانہ بنانا۔

العَرِضِيُّ: جو زمین پر قائم نہ رہ سکے۔

مِنَ الْإِبِلِ: سرکش اونٹ جو ابھی اچھی طرح نہ سدھایا گیا ہو۔

العَرِاضُ: جانب۔ گوشہ۔ کنارہ۔ حصہ۔ اونٹ کی ران میں چوڑائی میں علامت یا لکیر۔ عَرِاضُ الْحَدِيثِ: بڑی اور بہتر بات ج عَرِضُ الْعَرِاضِ وَالْعَرِضُ: چوڑا۔

العَرِاضَةُ: عَرِاضُ كَامُؤنث۔ ہدیہ جو سفر سے آنے والا پیش کرے۔

العَرِضِيُّ: وہ جو لوگوں سے شر کے ساتھ پیش آئے۔

العَرِضِيُّ: اشعار کا وزن۔ معرہ۔ اولیٰ کا جزم اخیر۔ سرکش اونٹنی جو ابھی سدھائی نہ گئی ہو۔ ج عَرِاضِي: نگہ اور مدینہ اور ان کے مضامین۔

گوشہ۔ دامن کوہ میں راستہ۔ بادل۔ ہمت۔ چیز۔ چلنے میں سامنے کی جگہ مِنَ الْكَلَامِ مضمون۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ الْمَسْئَلَةُ عَرِضٌ هَلِذِهِ" یعنی یہ مسئلہ اس کی نظیر ہے۔

العَرِضِيُّ: علم عروض کا جاننے والا۔

العَرِاضُ: فا۔ رخسارہ۔ بادل۔ پہاڑ۔ عارضی چیز۔ کہا جاتا ہے "عَرِضٌ عَرِضٌ" یعنی مانع نے روک دیا۔

العَارِضَةُ: مؤنث العَارِضُ: وائت جو منہ کے عرض میں ہیں یا وہ وائت جو ہتے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ پیش آنے والی چیز۔ دروازہ کے اوپر کی کٹڑی جس میں دروازہ گھومتا ہے۔ رخسارہ۔ گوشہ۔ حاجت۔ ج عَرِاضُ: العَوَارِضُ: مکان کی چھت کی کٹڑیاں جو عرض میں رکھی ہوئی ہوں۔

عَرِضٌ عَرِضٌ: یعنی چیز میری نگاہ کے سامنے ہے "إِشْتَرَيْتُ الْمَتَاعَ بَعْرَضٍ" سامان کو سامان سے خریدو۔ و عَرِضُ الْحَالِ عِنْدَ الْكُتَّابِ: حاکم کے پاس شکایت کے لیے یا کسی فائدہ کے لیے حاصل کرنے کی غرض سے درخواست دینا اور جمع کے لیے عَرِضُ الْأَحْوَالِ بولا جاتا ہے أَعْرَاضُ الشَّجَرِ: درخت کی پھلکیاں۔

العَرِضُ: اچھی عادت۔ آہرو۔ باعث فخر و عزت۔ ج أَعْرَاضُ: کہا جاتا ہے "هُوَ تَقِيٌّ" العَرِضُ: وہ عیب اور گالی گلوچ سے پاک ہے و "ذُوو الْعَرِضِ مِنَ الْقَوْمِ" یعنی قوم کے اشراف و "هُوَ عَرِيبُ الْعَرِضِ" وہ کینہ خاندان کا ہے۔ العَرِضُ: نفس۔ کہا جاتا ہے "كَوْنَتْ عَرَّةٌ عَرِضِيَّةٌ" یعنی میں نے اس سے اپنے نفس کو پہلیا۔ جسم۔ جسم کی بڑ۔ مسامت۔ وادی یا شہر کا کنارہ۔ وادی جس میں درخت پانی اور آبادی ہو۔ ج عَرِضَانُ: ہمت۔ بڑا لنگر۔ بڑا بادل۔ العَرِضُ مِنَ النَّاسِ: لوگوں سے بیہودگی سے پیش آنے والا۔

العَرِضُ: جانب۔ کنارہ۔ دامن کوہ۔

مِنَ الْبَحْرِ أَوْ النَّهْرِ: سمندر یا دریا کا وسط۔

مِنَ الْحَدِيثِ: بہتر بڑی بات۔

مِنَ السَّيْفِ أَوْ الْعُنُقِ: تلوار یا گلے کی ایک جانب۔ کہا جاتا ہے نَظَرُ إِلَيْهِ عَنِ عَرِضٍ وَكَتَمَهُ عَنِ عَرِضٍ: گوشہ۔ چشم سے دیکھا اور ایک جانب ہو کر گفتگو کی۔ و عَرِضٌ جَوَائِضُ بَنُو النَّاسِ عَنِ عَرِضٍ: یعنی نکل کر مارنا شروع کر دیا اور یہ پروا نہیں کی کہ کس کو مار رہے ہیں اور کیوں مار رہے ہیں۔ و اضرب به عَرِضُ الْحَالِطِ: یعنی دیوار کے ایک گوشہ پر چھینک دو اور اعراض کرو۔ و هو مِنَ عَرِضِ النَّاسِ: وہ معمولی لوگوں میں سے ہے۔

العَرِضُ: متاع۔ سامان۔ عارضہ۔ غیر دائمی چیز۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْأَمْرُ عَرِضٌ" یعنی یہ امر زائل ہونے والا ہے۔ بختش۔ قیمت۔

مِنَ كُلِّ شَيْءٍ جَوَائِضُ بَنُو النَّاسِ: وہ ہولکے جو ہر کے ساتھ قائم ہو۔ ج أَعْرَاضُ: کہا جاتا ہے "فَعَلَّةٌ

<p>”هَذَا أَعْرَافٌ“ یعنی معروف ہے۔ العارِفة۔ مؤنث عارف۔ معروف۔ علیہ۔ ج۔ عَوَارِف۔ العَوْرُوف۔ بمعنی عارف۔ مبر کرنے والا۔ ج۔ عُرُوف۔ العَوْرُوفَةُ۔ جاننے والا۔ عالم۔ العَرِيفُ۔ جاننے والا۔ عالم۔ اپنے ساتھیوں کا تعارف کرانے والا۔ قوم کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا۔ نسیب۔ اور یہ رئیس سے کم مرتبہ کا ہوتا ہے اور اسی سے ہے ”عَرِيفٌ المَكَايِبِ“ اسکول کا مانیٹر۔ ج۔ عَوْفَاءُ۔ اَمْرُو عَرِيفٌ: امر معروف۔ الأَعْرَافُ۔ اسم تفضیل۔ کلفی والا۔ ایال والا۔ حَزَنٌ: عَوْرُوفٌ۔ بلند جگہ۔ العَوْرَاءُ۔ مؤنث الأَعْرَافُ۔ بجو۔ قَلَّةٌ۔ عَوْرَاءُ۔ بلند چوٹی ج۔ عَوْرُوفٌ۔ الأَعْرَافُ۔ دوزخ اور بہشت کے درمیان ایک مقام۔ ایک قسم کی سمجور کارخت۔ اَعْرَافٌ الرياح والسحاب: ابتدائی ہوائیں۔ بلند بُادِلٌ۔ اَعْرَافٌ الحجاب أو الزمَلِ: حجاب اور ریت کی بلندیوں۔ ﴿الأَعْرَافُ﴾ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام۔ الصَّغْرُوفَةُ۔ حقیقت کہالیانا۔ الصَّغْرُوفُ وَالصَّغْرُوفُ۔ چہرے کے حاسن ج۔ مَعَارِفُ۔ کہا جاتا ہے ”هَمَّ غُرُ الْمَعَارِفِ شَمُّ المَعْرَافِ“ وہ روشن چہرہ اور اونچی ناک والے ہیں۔ المَعَارِفُ: علوم۔ مَعَارِفُ الزَّجَلُ: شناسا لوگ۔ کہا جاتا ہے ”هَوَمِنَ المَعَارِفِ“ وہ مشہور لوگوں میں سے ہے۔ المَعْرُوفَةُ۔ ایال کے اگنے کی جگہ۔ ج۔ مَعَارِفُ۔ المَعْرُوفُ۔ مہم۔ مشہور۔ خیر۔ رزق۔ احساناً ”أَرْضٌ مَعْرُوفَةٌ“ اچھی بُوَدَالِ زَمِنِ۔ المَعْرُوفُ۔ ایک قسم کا درخت جو نرم زمین میں ہوتا ہے۔ ج۔ عَوْرُوفُ المَعْرُوفِ: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔ عَرُوقٌ (ن) عَوْفًا وَمَعْرُوفًا۔ العَظْمُ۔ بڑی پر سے سارا گوشت کھایا۔ کہا جاتا ہے ”عَوْفَنَهُ العَظْمُ“ حوادث نے اس کو پوری طرح سے</p>	<p>عَوْرُوفٌ۔ لِلشَّيْءِ: بڑائی کیلئے آمادہ ہونا۔ الفَرَسُ: گھوڑے کا ایال والا ہونا الْبَهْرُ: سمندر کی موجوں کا بلند ہونا التَّخْلُفُ: درخت خرما کا گنجان ہونا الدَّمُ: خون کا جھاگ والا ہونا الزَّوْجُ: سوار کا گھوڑے کے ایال پر سوار ہونا الزَّجَلُ: درخت خرما پر چڑھنا۔ العَوْرُوفُ۔ بُو۔ اکثر خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”مَا ظَلَيْتُ عَوْفَهُ“ اس کی خوشبو کیسی اچھی ہے۔ العَوْرُوفُ۔ جود۔ بَشْشٌ۔ بھلائی۔ علیہ۔ اقرار۔ کہا جاتا ہے لَعْنَةُ عَلِيِّ أَلْفِ عَوْفًا۔ اُس کے میرے اوپر ہزار ہیں مجھے اقرار ہے۔ ایال۔ مرغ کی کلفی۔ نیکی۔ العَوْرُوفُ۔ موج۔ اونچی جگہ۔ آگے پیچھے۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ القَوْمُ عَوْفًا“ یعنی قوم آگے پیچھے آئی ج عَوْرُوفٌ وَأَعْرَافٌ۔ العَوْرُوفُ: اصطلاح۔ تسلیم کردہ بائیں۔ عَوْرُوفُ اللِّسَانِ: اصطلاح لغوی۔ عَوْرُوفٌ الشَّعْرُ: اصطلاح شری۔ العَوْرُوفُ وَالعَوْرُوفُ۔ صبر۔ العَوْرُوفُ۔ ایال۔ ریت کی اونچی جگہ۔ العَوْرُوفَةُ۔ ہوا۔ پھیلنے کا زخم (وَالعَوْرُوفَةُ) دریافت۔ سوال۔ العَوْرُوفَةُ۔ دو چیزوں کے درمیان کی حد۔ ریت کی اونچی جگہ۔ ج۔ عَوْرُوفُ۔ عَوْرُوفَةُ۔ نکتہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام۔ نویں ذی الحجہ۔ عَوْرُوفَاتُ۔ نکتہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑی جو حاجیوں کے لیے نویں تاریخ کو ذی الحجہ میں وقوف کرنے کی جگہ ہے اور نسبت کے لیے عَوْرُوفِيٌّ۔ العَوْرُوفَةُ۔ نجومی کا پیشہ۔ العَوْرُوفُ۔ نجومی۔ طیبیہ۔ العَوْرُوفَانُ۔ مہم۔ معروف۔ العَوْرُوفَانُ وَالعَوْرُوفَانُ۔ اقرار کرنے والا۔ بتانے والا۔ الإعْرَافُ۔ مہم۔ پاری کے سامنے گناہ کا اقرار کرتا۔ العَوْرَافُ۔ فا۔ مبر کرنے والا۔ کہا جاتا ہے</p>	<p>موت اوث۔ ج عَوْرَاعُو۔ العَوْرَاعُو: کوہان کے کنارے۔ العَاوْرُوفَةُ۔ محسوس مرد۔ گندا مرد۔ بے کوہان کا اوث۔ عَوْرَفٌ (ض) عَوْفَةٌ وَعَوْفَانًا وَعَوْفَانًا وَمَعْرُوفَةُ الشَّيْءِ: پہچانا۔ جانا۔ بَدَّنِيهِ: اقرار کرنا۔ بدلہ دینا۔ لِلأَمْرِ: صبر کرتا۔ عَوْرَفٌ (ن) عَوْرَافَةٌ۔ عَلِيٌّ القَوْمِ: چودھری ہوتا۔ قوم کے معاملات کا انتظام کرتا۔ قوم کی سیاست کرتا (عَوْرَفًا) الفَرَسُ: گھوڑے کے ایال کاٹنا۔ عَوْرَفٌ (ك) عَوْرَافَةٌ۔ چودھری ہوتا (عَوْرَفًا) عَوْرَافًا عَوْرَافَةً: بہت خوشبو لگانا۔ عمدہ خوشبو ہونا۔ عَوْرَفٌ (س) عَوْرَافًا: خوشبو ترک کر دینا۔ عَوْرَفُ الزَّجَلِ: پھیلنے میں چھوڑا ہونا۔ صفت معروف۔ عَوْرَفٌ۔ الشَّيْءِ: خوشبو دار کرتا۔ عَوْرَفَةُ الأَمْرِ: واقف کر دینا۔ عَوْرَفَةُ بِلَانٍ: نام بتا دینا۔ عَوْرَفٌ الصَّائِلَةَ: گمشدہ کو ڈھونڈنا۔ الطَّعَامُ: سالن زیادہ کرنا۔ الإِسْمُ: اسم کلمہ کو معروف بنانا۔ المَحْجَاجُ: حاجیوں کا عرف میں ٹھہرنا (وَأَعْرَفٌ) فَلَانًا: خطا مطلع کرنا اور متواضع کر دینا (وَأَعْرَفُ الفَرَسُ: گھوڑے کا لبے ایال والا ہونا۔ تَعْرَفُ الإِسْمُ: اسم کلمہ کا معروف ہونا الشَّيْءِ: طلب کرنا یہاں تک کہ پہچان لینا الصَّائِلَةَ: گمشدہ کو تلاش کرنا بِلَانٍ: آشنا ہونا۔ إِلَيْهِ: واقف کرنا۔ تَعَارَفَ القَوْمُ: ایک دوسرے کو پہچانا۔ إِعْتَرَفَ بِالشَّيْءِ: اقرار کرنا۔ ذَمِيلٌ ہونا۔ تَابَعْدَارٌ ہونا۔ الشَّيْءِ: پہچانا۔ پہ: رہنمائی کرنا۔ الزَّجَلُ: دریافت کرنا إِلَيْهِ: نام اور حال کی اطلاع دینا لِلأَمْرِ: مبر کرنا۔ الصَّائِلَةَ: گم شدہ کالاک ٹھہر کرنے کے لیے لوصاف بتانا۔ إِسْتَعْرَفَ الشَّيْءِ: پہچانا۔ إِلَى فَلَانٍ: واقفیت کے لیے نسبت بیان کرنا۔</p>
--	---	--

گھیر لیا۔ الطریق: قطع مسافت کرنا) عرقاؤ غرقاؤ (البن الأرضی: سفر کرنا۔ عرق عرقا۔ ڈبلا ہونا۔ کم گوشت ہونا۔ عرق (س) عرقا۔ پسینہ آنا۔ صفت عرقان الحافظ: دیوار کا تر ہونا۔ الزجل: کابل ہونا۔ عرق: پسینہ لانا۔ عرق و اعرق الشجر: لمبی جڑ والا ہونا۔ عرق و اعرق الخمر: شراب میں تھوڑا پانی ملانا۔ عرق و اعرق الإناء: برتن میں تھوڑا پانی ڈالنا۔ اعرق الزجل: عراق میں جانا۔ خاندانی شریف ہونا۔ اعرق الشجر: لمبی جڑ والا ہونا۔ الضم: بڑی پر جو کچھ گوشت ہو کھالیا۔ القوم: عراق میں جانا۔ کہا جاتا ہے "بقرقنہ الخفلوب" حادثہ نے اس کو پوری طرح گھیر لیا۔ استعرق: پسینہ لانے کیلئے گرمی کے درپے ہونا۔ الشجر: لمبی جڑ والا ہونا۔ العرق: بڑی جس پر سے گوشت اتار لیا گیا ہو ج عروق و عرقا۔ العرق: ہر چیز کا اصل۔ من البدن: رنگ بدن۔ دشوار گزار پہاڑ۔ چھوٹا پہاڑ۔ تھوڑا پانی۔ شور زمین۔ دودھ۔ بہت اولاد۔ ریت کی ہڈیک اور لمبی وحاری۔ ج عرق و اعرق و عرقا۔ ذاق عرق النساء: وجع مفاصل کی ایک قسم جو ران سے شروع ہوتی ہے اور گھٹنے یا قدم تک پہنچتی ہے۔ العرق: مہ۔ پسینہ۔ دیوار کی تری۔ دودھ اٹلے کہ رگوں سے کھینچ کر گھن میں پختا ہے۔ دیوار میں کچی اینٹوں یا پتھر کی قطار اور عام لوگ اسے "مذماک" کہتے ہیں۔ پہاڑ کے راستے۔ ایک قطار میں اونٹوں کے چلنے کے نشان۔ دوڑ۔ کہا جاتا ہے جزوی الفرس عرقا و عرقین: گھوڑا ایک یا دو مرتبہ دوڑا۔ من القصور: گھوڑا کارس۔ عرق الجلال: دوست کا عطیہ۔ عرق کا اطلاق شراب پر بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "لقیبت منه عرق القزبة" و "تجشمت إليك عرق القزبة" مشقت اور شرت سے کنایہ ہے۔ مراد

یہ ہے کہ میں نے ایسی مشقت اٹھائی جیسے کہ منک کا اٹھانے والا کہ اس کو بوجھ کی وجہ سے پسینہ آجاتا ہے۔ العرقلة: عمامہ اور ٹوپی کے نیچے کا پتڑا۔ العرق والعرقلة: ست پسینہ والا۔ العرقلة: اسم مرۃ۔ گوشت کا کٹلا۔ پہاڑ میں راستے۔ العرقلة: اصل۔ درخت کی بڑ کاریش۔ ج عرق و عرقا۔ العرقا والعرقا: اصل۔ درخت کی بڑا کاریش۔ العرقا والعرقا: ڈول کے منہ کی کھڑکی ج العرقا۔ دیوار میں کچی اینٹوں یا پتھر کی قطار۔ گھوڑوں یا پرندوں کی قطار۔ شہیر۔ دھن۔ خمیر کے ارد گرد کا پسینہ ج عرق و عرقا۔ العرق والمعرق: خاندانی شرت یا کینگی۔ خلاص عرقی: ڈبلا لڑکا (والاعرق) صاحب اصل۔ کہا جاتا ہے "هو عرق منك فين سكذا" وہ فلاں چیز میں تم سے زیادہ صاحب اصل ہے۔ العرق: طول میں سمندر کا کنارہ۔ پر کا جوف۔ من الدار: گھر کا من۔ من الظفر: ناخن کے گرد اگر دگوشٹ۔ من الاذن: کان کا گھیرا۔ من النهير: ندی کا کنارہ ج اعرقا و عرق و عرقا و العرقا: نلک عراق جو عبادان سے موصل تک طولا اور قادسیہ سے حلوان تک عرضا ہے۔ العرقان: کوفہ و بصرہ۔ العرقا: بڑی جس کا گوشت کھالیا گیا ہو۔ کثیر بارش۔ عرق الغيث: بارش کے بعد روئینگی۔ العرقا: کثیر بارش۔ العرقا: واڑھیں۔ الجعرق: چھری وغیرہ جس سے بڑی پر سے گوشت اتارا جاتا ہے۔ زجل معرق و معرقو العظام: ڈبلا۔ عرقب: الزجل: حلیہ کرنا۔ الذابہ: کو نہیں کاٹنا۔ کھڑا کرنے کے لیے کو نہیں اٹھانا۔

عرقب: حلیہ کرنا۔ عرقب کے نامزد ہونا۔ (دیکھو لفظ عرقوب) عین الامر: بازار ہونا۔ پہاڑ پر تنگ راستوں میں چلنا۔ لخصم: دشمن کے لیے معنی طریقہ اختیار کرنا۔ العرقوب: کوچ۔ ایزی کے اوپر کا چمھا وادی کا موڑ۔ پہاڑی راستہ۔ حلیہ عرقا العرقب الأبیور: مشکل کام۔ عرقوب نام ایک شخص کا جو جموت اور وعدہ خلافی میں ضرب المثل تھا۔ عرقص الغلام: لڑکے کا ناپتا۔ عرقصت الحقیقہ: سانپ کا رنگینا۔ عرقل: توسط سے ہٹ جانا۔ الامر: دشوار کر دینا۔ علیہ الکلام: بیڑھا کرنا۔ تعرقل الامر: پیچیدہ ہونا۔ الکلام: بیڑھا ہونا۔ العرقال: گمراہ۔ کج رو۔ العرقیل: اٹلے کی زردی۔ العرقیل: مہینیس۔ عرقیل الامر: دشوار امور۔ العرقلی: نازد بختر کی حال۔ عرق (ن) عرقا۔ الاذیم: چھڑے کو ملنا۔ الذہور: زمانے کا کسی کو تجربہ کار بنا دینا۔ الشئ: رگڑے رگڑے مٹا دینا۔ المشایبہ التباہت جانوروں کا ساری نباتات کو کھا جانا۔ المشایبہ الأرض: چارے سے خالی کر دینا (عرقا و عرقا و عرقا) العرقا: عورت کا حائف ہونا۔ کہا جاتا ہے "عرقا الأذی بیجنیہ" یعنی اس نے مشقت اٹھائی۔ عرق (س) عرقا: سخت حملہ آور ہونا۔ صفت عرق۔ عازکا: معازکا و عراجا۔ مقابلہ کرنا۔ مزاحمت کرنا۔ کہا جاتا ہے "أوزة ابلة عراجا" یعنی وہ سارے اونٹوں کو پانی پر لایا۔ تعرق الشئ: ملجانا۔ تعازک الزجلان: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ اعرقا: آپس میں جگ کرنا۔ "اعرقا التامن فی المعركة او الخوض" لوگوں کا میدان جنگ میں قتل و قتل کیلئے بل پڑنا۔

الابن لب الزبد: اذ تولى كعكاته براترے میں
بھیر کرنا۔ الریحان لب الخویب: ہنودہ کرنا
اور ایک سو سرے کو کرنا۔

العزوم والغرم: آواز۔
العزوم: مچھلی کا شکاری۔ ع عزمک۔ ع
عزومک۔

العزومک: بار بار۔ کہا جاتا ہے لقبشہ عزمکة و
عزومات۔

العزومک: صفت برداشت کرنے والا۔

العزومک: کہان۔ لبس۔ طبیعت۔ عادت۔ کہا
جاتا ہے "فلان لکن العزومک" یعنی نرم خوب۔
"هو ضعیف العزومک" یعنی وہ سخت مزاج ہے۔
ع عزمک۔

العزومک: العزومکة والعزومکة: میدان
جنگ۔ عزمک۔

العزومک: میدان جنگ۔ العزومکة العزومکة
اشکان کی عمر سے ساٹھ اور ستر سال کے درمیان۔
العزومک: نا۔ جنگجو۔ سخت حملہ آور۔

العزومک: غم۔ ممانہ العزومک: جس پر پانی پر
بھیر زیادہ ہو۔ ارض معروکہ جس زمین کو
جانوروں نے چر کھا کر صاف کر دیا "زقل معزومک
وعزومک" جمع شدہ ریت ایک دوسرے میں
داخل۔

عزمکس: الشئی: یہ بتہ ہوتا۔ الشئی:
یہ بتہ کرنا۔

العزومکس: جمع ہونا اور یہ بتہ ہونا۔
العزومکس: ہاوں کا سخت کالا ہونا۔

عزم (ن) عزمًا: العظم: بڑی سے
گوشت آتا رہا۔ الصبیئ افة: بچے کا
انہی بل کا دودھ ہوتا۔ الابن الشجر:
اوتھ کا درخت سے بچے کہتا۔ فلان:
تلقب۔

عزوم (ن) عزومًا و عزومًا (س) او عزوم (ک)
عزومًا: شدید دخت ہوتا۔ شرح ہونا۔ بہت خوش
ہونا۔ بد خلق ہونا۔ خراب ہونا۔ صفت عازم
وعزوم۔

عزومکس: غلط کرنا۔
عزومکس: ہار کر کھل کر ہمت نہ ہونا۔

عزوم: العظم: بڑی سے گوشت آتا رہا۔

عزومًا: بہت زیادہ خوش ہونا اور آگڑا۔

عزوم: العزوم: گھوڑے کا دور دور قدم
رکنا۔ نہ دور ہونا۔ الصبیئ لذی افة: بچے
کابل کے پستان کو چوسنا۔

العازم: نا۔ بد خلق۔ موزی ع عزمک مؤنث
عازمک عزمک عزمک عزمک عزمک عزمک عزمک عزمک
عزمک۔

العزوم: چکنا چٹ۔ ہانڈی کا تہ۔

العزوم والعزومة: سیاحی سفیدی ملی ہوئی۔
چھوٹے چھوٹے سیاہ سفید نقطے۔ ہماری کے ہونٹ
کی سفیدی۔ ہماری کو (عزوماء) اور ہماری کو اعزوم
کہتے ہیں (۔ والعزومة) گیسوں کا بھیر جو دائیں
کرنے کے بعد بھوسہ لگانے کے لیے جمع کیا
جائے۔ العزومة: کھانے کی بو۔ العزوم: ہانڈی کا
تہ۔

العزومة: پشتہ جو وادی کے عرض میں ہو۔ ع
عزوم اور یاعزوم کا لفظ جمع ہے۔ بخیر واحد العزوم
نرجوا۔ شدید بارش۔ وادی۔ وادی کے پٹھے۔

العزوم: ظالمین تک خوار پرندے کا بیڑا۔

العزوم: من العزوم: فوج کی تیزی و کثرت
۔ من العزوم: بد خلقی۔ کہا جاتا ہے "بہیضة
وعزوم": اس میں تیزی و بد خلقی ہے۔ ہانڈی کا
تہ۔

العزوم: مصیبت عزممان۔

الاعزوم: رنگ برنگ۔ غیر مستعمل۔ بھیرا ہماری کا
ریڑھ۔ غیر مستعمل۔ عزممان عزممان عزممان۔

العزوماء: ملاوٹ۔ اعزوم: جتنی دار سانپ۔

العزوم: سخت۔ بے شمار لشکر۔

العزومس: چٹان۔ مضبوط اونٹنی۔

العزومس والعزوماس: کالی۔

عزوم (ن) عزومًا السہم: تیروں کو ترتیب
سے رکھنا۔ عزمی الشئی: کسی چیز کا عادی
ہونا۔ العزوم: اوتھ کی ناک میں کھڑی
ڈالنا۔

عزوم (س) عزومًا: الذابہ: عزمک کی بیماری
لاحق ہونا (و کھولنے عزمک) صفت مذکر عزم اور
صفت مؤنث عزمک وعزومک (عزمک)۔

المداز: گھر کا دور ہونا۔

عزوم الترمج: نیزے میں بخ لگانا۔

اعزوم: العزوم: بھیر سے گوشت کھانا۔

العزوم: معہ: پکا ہوا گوشت۔ و عزم۔

العزوم والعزوم: العزومة: ایک بیماری ہے
جس سے جانور کے پچھلے پیر کے بال گر جاتے ہیں
یا جانور کے پاؤں کا پھٹنا۔

العزوم: کھڑی جو اوتھ کی ناک میں ڈالی جاتی
ہے۔ دوری۔ بجر کا بٹ۔ نیزے کی بیخ۔ ہمسر۔
جنگ۔

العزوم: گھر کا مچھ۔ جمالی۔ گوشت۔ آواز۔

شیر وغیرہ کا پھانسا ہوا۔ عزوم عزمون (۔
والعزومة) شیر۔ بجر۔ بھیر سے کی جمالی۔ سانپ
کی بی۔

العزومین: ناک۔ ناک کا سخت حصہ۔ سردار
۔ من کلبی شقی: ہر چیز کا پہلا حصہ۔ ع
عزومین۔

العزوماس: پہاڑ کا ٹکڑا ہوا حصہ۔ کبوتر کی مانند
ایک پرندہ۔ کھڑی یا لوہا جس میں کاتے والی روٹی
کے گالے کو لپیٹ کر کاتتی ہے۔ جوار کا پھٹنا۔ عزم
(عزومس) کہتے ہیں عزمینس۔

عزوم وعزوم: فلانًا عزمًا: پیش آنا۔ فلانًا:
علیہ مانگنے کیلئے قصد کرنا۔ صفت فاعل عازم اور
صفت مفعول معزوم۔ العزومینس کرتے ہیں

کاج بنانا (۔ وغری) عزمک کی سردی لاحق
ہونا۔ صفت عازم عزمک اور معزوم۔ وغری
العزوم: خوف کی کھلی لاحق ہونا۔

اعزومی وعزومی العزومینس: کرتے میں کاج
بنانا۔ اعزومی صاحتہ: چھوڑنا۔

اعزومی واعزومی: فلانًا: علیہ مانگنے کیلئے جانا۔

اعزوم افة: للاحق ہونا۔

العزوم: گوشہ۔ وہ جو امور کا اہتمام نہ کرے۔

لوگوں کی جماعت عزمک عزمک۔ کہا جاتا ہے "انما عزمو
من کذا" میں فلاں چیز سے خالی ہوں "وہیما
اعزومین الناس" اس کے ساتھ جماعتیں ہیں۔

العزوماء: عزمک کی سردی۔

العزومینس الإنہیق: وسخوة: چھانگ لے کر
دست۔

الغزوة الغزوة العزى والعزى: كاج-
 الغزوة: كجيان درخت. روخت. جس کے پتے
 جالے میں نہ کریں۔ ٹیس مال۔ قابل اعتبار چیز۔
 کہا جاتا ہے "أنا غزوة منه" میں اس سے خالی
 ہوں۔ "ألقى إليه العرى" یعنی اس نے لٹاں کو
 مٹھلہ پر رکھ دیا۔
 عری بغزى غزبةً وغزباناً من ثيابہ: عجا
 ہوتا۔ صفت مذکر عارٍ وغزبان ج غزاة۔ صفت
 مؤنث عاربةً وغزبانةً ج عوارٍ وعاربات۔
 عری من الثياب وغیرہ: صلب وغیرہ سے پاک
 صاف ہونا۔ صفت عز (عربی) اللینة:
 رات ٹھنڈی ہونا۔
 عزاً یغزى غزباناً. الأمور: پیش آنا۔
 عزى تغريةً الوجل القوب ومن القوب:
 نکا کرنا۔ من الأمور: علیحدہ کرنا۔ چھڑ لینا
 الوجل: بیکار کرنا۔ چھوڑنا۔
 الشئ: دست لگانا۔ کہا جاتا ہے "عزاة بغزى
 وثيقة" مضبوط دست لگانا۔
 أغزى إغزاةً الوجل القوب ومن القوب:
 نکا کرنا۔ کپڑے اتار لینا۔ فلانا التخلية:
 کسی کو ایک سال کے لیے چھل بہ کرنا۔
 فلانا صلیقةً: ڈور ہونا اور مدد نہ کرنا۔
 الوجل: رات کی ٹھنڈک لگانا۔ کھلے میدان میں
 چلتا یا قامت کرنا۔
 تغزى تغزباناً من ثيابہ: کپڑے اتار لینا۔
 اغزوزى اغزباً: تما سفر کرنا۔
 الفرض: نکلی پیٹھ پر سوار ہونا۔ أمزاً
 فینحاً: قہقہہ کام کرنا۔
 العزى: گوشہ۔ میدان۔ سردی۔
 العزاة: کھلمیدان۔ ج اغزواء۔
 العزاة: میدان۔ مکان کا سحن۔ سردی کی
 شدت۔
 لغزى غزى: نکلی پیٹھ کا گھوڑا۔ بلا زین کے
 گھوڑا۔ ج اغزواء۔
 الاغزاء: آزاد اولاد پر اولاد۔ واحد غزى۔
 الغزبة والغزبة: نکالنا۔
 العاربة: اوجھاری ہونے کی چیز۔

الغزبان: نکالنا۔ غزباناً النجى: جو اپنے ہمید کو نہ
 چھپائے۔
 العزى: ٹھنڈی ہوا۔
 العزبة: ٹھنڈی ہوا۔ کجور کا درخت، جس کا پھل
 کھا لیا گیا ہو۔ کجور کا درخت جس کے مالک نے
 دوسرے کو پھل کھانے کیلئے دے دیا ہو۔ ج
 عزباناً: کہا جاتا ہے "تخله من عزباناً" یعنی ان کے
 درخت خرابہ شدہ ہیں کہ مری اور ج سے دوسروں
 کو پھل کھانے کیلئے دے دیتے ہیں۔
 المغزى والمغزاة: نکالنا۔ بدن کا وہ حصہ جو
 کپڑے سے نہ چھپایا جائے جیسے ہاتھ پہرہ وغیرہ
 مغزى: مغزى: جگر مٹات۔ چھوٹے۔
 عز (ض) عزاً وعزوةً وغزاةً: عز ہونا۔ قوی
 ہونا۔ ضعیف ہونا۔ الشئ: قلیل ہونا۔
 کیاب ہونا۔ دشوار ہونا۔ الماء: بہنا۔ عز
 علیہ عزاً: کریم ہونا۔ کہا جاتا ہے "عز علی أن
 تفعل كذا" میرے اوپر سخت اور دشوار ہے کہ تم
 ایسا کرو۔
 عزة (ن) عزاً: قوی کرنا۔ عزت کی کوشش میں
 غالب کرنا۔
 عزوةً: مدد کرنا۔ تقسیم کرنا۔ معزباناً:
 عازةً معازةً: حصول عزت میں مقابلہ کرنا۔
 معتكفوس غالب ہونا۔
 اغزوةً اغزباناً: عز بنانا۔ سخت کرنا۔ اغزبت
 الثیوة: گائے کا دُشعل حمل دشوار ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "اغزوت بما أصابك" جو کچھ تم پر گزرا ہے
 اس سے مجھے تکیف ہوئی۔
 اغزى قوی ہونا۔ یہ: اپنے آپ کو طاقتور
 قوی سمجھنا۔ فخر کرنا۔ علی فلان: بزرگی
 جتاناً غالب آنا۔
 اغزى قوی ہونا۔ یہ: فخر کرنا۔
 لغزى: سخت اور ٹھوس ہونا۔
 استغزى علیہ: سختی کرنا۔ غالب ہونا۔
 اللہ بفلان: وفات دینا۔ کہا جاتا ہے
 "استغزى بحقى" یعنی میرے اوپر غالب آ گیا
 "واستغزى بعلین" یعنی بیماری بڑھ گئی اور اس کی
 معطل پر غالب آئی۔
 العز: عزت۔ سخت بارش۔

زجل عز۔ قوی۔ کہا جاتا ہے "جنى به عزاً
 اس کو جس طرح سے ہولے آؤ۔
 العز: ہرن کا کھانچہ۔
 العزبة: حصول عزت کے مقابلہ میں غالب
 ہونا۔ صیت۔
 العزبان: شریف۔ قوی۔ دار۔ معزز۔ بادشاہ بلند
 کہ اس کا حصول دشوار ہو اور وہ مطلوب نہ ہو
 اور کوئی اس کو عاجز نہ کر سکے اور اس کے مانند
 کوئی نہ ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں
 سے ہے ج عزاز و اعزاء و اعزاة۔ حاکم مصرک
 لقب۔
 الاغزاء: ام تفضیل۔ عز۔
 العزى: عز۔ شریف۔ (اغز) کلاؤٹ۔ قریش
 کے ایک نعت کا نام۔
 العزاء: شدت۔ سخت سال۔ بڑی بوند کی
 بارش۔
 المعزاز: سخت مرض والا۔
 المعزوة: سختی۔ زمین جس پر سخت بارش
 ہوئی ہو۔
 عزب (ن) غزبةً وغزوبةً: بے نفع کے
 ہونے۔ گھردہ۔
 عزب (ن) غزباناً: ڈور ہونا۔ غالب ہونا۔
 پوشیدہ ہونا۔ صفت عازب عزبت الارض:
 زمین کا وہ ان ہونا۔
 عزب: دیر تک غالب رہنا۔ شروع کئے ہوئے
 کو چھوڑنا۔
 اغزب: ڈور ہونا۔ ڈور کرنا۔ بے
 زورج کرنا۔
 تغزب: مجبور بننے کے بعد گھربانا۔
 العازب: نا۔ ڈور کی چراگاہ۔
 العازبة: مؤنث عازب۔ مرد کی بھئی ج
 عواذب۔
 العزب: وہ مرد یا عورت جس کے زورج نہ ہو۔
 اور کہا گیا ہے کہ "عزب" مز کیلئے اور عزبةً
 مؤنث کیلئے۔ ج عزاب و اعزاب۔
 الاغزب: جس کے اہل و عیال نہ ہوں۔ وہ
 شخص جو اپنے اہل و مال سے ڈور ہو گیا ہو۔ مؤنث
 عزامہ ج عزب۔

عَزَفٌ

عَزَلٌ

عَزَمَ

۵۳۶

المِعْرِزَةُ - باندی - لوطی (_____ والمِعْرِزَةُ) ہوی۔

المِعْرِزَابُ والمِعْرِزَابَةُ - وہ شخص جو اپنے چلو رو کو ڈور چرانے کے لیے لے جائے المِعْرِزَابَةُ جس کے اہل نہ ہوں۔ جس کا کھوارا پن دیر تک رہے۔

عَزَجَ (ن) عَزَجًا الزَّجَلُ : دفع کرنا _____ الأزْضَ بالمِنْصَحَاتِ : بیلے سے زمین کو الٹ پلٹ کرنا۔ جماع کرنا۔

عَزَوْدًا (ف) عَزْوًا : جماع کرنا۔

عَزَوْرَةٌ (ض) عَزْوًا : طامت کرنا۔ اعانت کرنا۔ جماع کرنا _____ عَنْ كَذَا : منع کرنا۔ واپس کر دنا _____ عَلَى الْأَمْرِ : خبر دنا _____ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ فَرَأَيْتُمْ : اور احکام سے واقف کروانا۔

عَزْوَةٌ : طامت کرنا۔ ادب دنا۔ سخت مارنا۔ تعظیم کرنا۔ اعانت دنا۔

العَزْوُورُ العَزْوُورُ : بد خلق۔

العَزْوُورَةُ : مَوْتٌ - عَزْوُورٌ - ثَلَاثٌ۔

العَزَايِرُ : لکڑیاں۔ درختوں کا پتلا یا (بغیر واحد کے جمع ہے)

العَزْوِيُّو العَزَايِرُ : کئی ہوئی گھاس کی قیمت۔

عَزْوًا بَيْلٌ : قریش ملک الموت کا نام۔

عَزْوَةٌ - عِزَّةٌ : عزت میں غالب آنا۔

عَزَا (ن) عَزًّا : جماع کرنا۔

عَزَفَ (ن) (ض) عَزْفًا وَعَزْفًا : نَفْسُهُ وَعَنْ الشَّيْءِ : بے رغبتی کرنا اور طول ہونا _____ عَزْفًا نَفْسُهُ عَنْ كَذَا : منع کرنا _____ عَزْفًا وَعَزْفًا : آواز دینا۔ گانا۔

عَزَفٌ : آواز دینا۔

عَزَفٌ : ہوا کی سرسراہٹ سنا۔

عَزَاؤًا : ایک دوسرے کے سامنے رجز پڑھنا۔ آپس میں فخر کرنا۔ ایک دوسرے کی جو کرنا۔

عَزْوُوفٌ : اللَّشْرُ : بڑائی کیلئے آمادہ ہونا۔ العَزَاؤُفُ : آہستہ آہستہ کیلئے والا۔ گویا۔ العَزَاؤُفُ : زَفَّ کی آواز۔ ہوا کی سرسراہٹ۔ العَزَفُ : جنگلی کیو تر۔

العَزْوُوفُ والمِعْرِزُوفَةُ : جو کسی کی دوستی پر قائم نہ رہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَزْوُوفٌ عَنِ النَّهْوِ" وہ کھیل کود سے کنارہ کش ہے۔ ج عَزَفَ عَزْفًا عَزْوُوفَةً میں تاہم ایسا کسی سے تائید نہیں کی۔

التَّعَزُّوفُ : بمعنی عَزَفٌ - مصدر۔

العَزَفُ : بہت باجا جانے والا۔ بہت گانے والا۔ سَخَابُ عَزْفًا : بہت گرنے والا بادل۔

المِعْرِزُفُ والمِعْرِزُفَةُ : گانے بجانے کے آلات ج معازف۔

عَزَقٌ (ن) عَزْفًا : تیز دوڑنا _____ العَجْوُ عَجْوِيٌّ : روک لینا _____ هَضْبًا : مارنے میں مبالغہ کرنا۔

عَزَقٌ (ض) عَزْقًا الْأَرْضُ : زمین کو کھودنا۔ کھود کر بائی ٹکانا۔

عَزَقٌ (س) عَزْقًا بِهِ : چپکانا۔ العَزَقُ : بد خلق۔ ج عَزَقٌ۔

العَزْوُوقُ والعَزْوُوقُ : بے مغز کا پتہ۔ زَجْلٌ عَزْوُوقٌ : سخت مزاج بخیل بد خومرد۔

العَزِيقُ : مِنَ الْأَرْضِ : بہت زمین۔

المِعْرِقُ والمِعْرِقَةُ : ہوا میں گیہوں صاف کرنے کا آلہ۔ کھودنے کے آلات جیسے پھاوڑا۔

كِدَالٌ - بَيْلِيٌّ : ج معازق۔

المِعْرِقُ : بد خلق۔

عَزَلَةٌ (ض) عَزْلًا : عَنْ كَذَا : جدا کرنا _____ فَلَانًا عَنْ مَنْصِبِهِ : علیحدہ کر دینا۔ معزول کر دینا _____ عَنْ عَمَلِهِ : باز رکھنا۔

عَزَلَةٌ : ایک جانب کر دینا۔

عَزَلٌ وَعَزْلٌ : الشَّيْءُ وَعَنْهُ : جدا ہو جانا۔

عَزَاؤٌ الْقَوْمِ : بعض کا بعض سے جدا ہونا۔

العَزْلُ : بے تیمار و دسان ہونا۔ عَزْلُ الْجَحَاظِ : گدھے کا پھیلا حصہ۔ العَزْلَةُ : سرین کی پٹی کا سرا جو بیٹھے میں زمین سے لگے۔

العَزْلُ والعَزَالُ : کمزوری۔

العَزْلَةُ : جدائی۔ گوش نشینی۔

العَزْلُ : بے تیمار مردج اعزال۔ الأَعْرَافُ : علیحدہ ریت کا ڈھیر ہے بارش کا بادل۔ بے تیمار ج عَزْلٌ وَأَعْرَالٌ وَعَزْلٌ وَعَزْلَانٌ مَوْتٌ عَزْلًا - الأَعْرَافُ مِنَ الدَّوَابِّ ذُمٌ كَوَجْعًا

ہوا رکھے والا _____ مِنَ الظَّنِّ : پرندہ جو اڑنے پر قادر نہ ہو۔ الأَعْرَافُ : نام دوستاروں میں سے ایک کا دوسرے کا نام "زَامِغٌ" ہے۔

العَزْلَاءُ : الأَعْرَافُ : کاموٹ۔ دیر۔ مٹک کا منہ

ج العَزَالِيَّ والعَزَالِيَّ : کہا جاتا ہے "أَنْزَلْتِ السَّمَاءَ عَزْلًا يَهُيَّا" یعنی آسمان نے اپنے وہانے کھول دیئے۔ اشارہ ہے شدید بارش کی جانب

کہا جاتا ہے "هُوَ عَنِ الْحَقِ بِمَعْرُوفٌ" یعنی وہ حق سے بعید و جداگانہ ہے۔

المُعْتَزَّلُو العَزَالُ : قدر یہ کی ایک جماعت جو اپنے خیال سے اہل سنت والجماعت اور خوارج دونوں کو گمراہ سمجھ کر جدا ہو گئے تھے۔

المِعْرَافُ : علیحدہ چرانے والا۔ سز میں علیحدہ اترنے والا۔ خورد رانے بے ہمتیار۔ کمزور۔ حق۔

ج معازف۔

عَزَلٌ عَزْلًا : جماع کرنا۔

عَزَمَ (ض) عَزْمًا وَعَزْمًا : مغرظا و مغرظا و مغرما و عَزْمًا وَعَزْمَةً : عَزْمًا مَانَا : امر و علیہ بہت ارادہ کرنا _____ الرَّجُلُ : کوشش

کرنا _____ الْأَمْرُ : واجب ہونا _____ فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ : قسم دینا۔ کہا جاتا ہے "عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَفْعَلَنَّ الْأَفْعَلَ و لَمَّا فَعَلْتَ" یعنی قسم دیتا ہوں _____ وَعَزْمٌ : الزَّاقِي : منترہنا۔

إِعْتَزَمَهُ الْأَمْرُ وَعَلَيْهِ : ارادہ کرنا _____ الظَّرْفُ بغير مھرے ہوئے گزر جانا _____ الفَرَسُ فِي عِتَابِهِ : سرکش کرنا۔

تَعَزَّمُ : الْأَمْرُ وَعَلَى الْأَمْرِ : ارادہ کرنا۔ العَزْمُ : بہت ارادہ۔

العَزْمَةُ : خاندان۔ قبیلہ۔ ج عَزْمٌ۔

العَزْمَةُ : حق۔ واجب ج عَزْمَاتُ عَزْمَاتِ اللَّهِ وَعَزَائِمُ اللَّهِ : اللہ کے حقوق فرائض۔ کہا جاتا ہے "مَا لَهُ عَزْمَةٌ" اس کیلئے ثابت و مبر نہیں۔

العَزْمِيُّ : کھلی بیجے والا۔ وقادار۔ عمد کو پورا کرنے والا۔

أُمُّ الْعَزْمِو العَزْمَةُ : أمُّ عَزْمَةَ : ذیر۔

العَزْمِيُّ : تیز رو۔

العَزْمَةُ : مولا کا ارادہ۔ مترج عَزَائِمٌ۔

ان اونٹوں کو کہا کرتے تھے جو نعمان بن منذر بادشاہ جبرہ کیلئے آرامتہ کے جاتے تھے۔

عَسْرُ الطَّعَامِ: کھانے میں نمک ڈالنا۔
الرَّجُلُ عَسْرٌ: بہت تیز نظر سے دیکھنا۔

العَسْرُ: نمک۔

عَسْرَةُ (ض) عَسْرًا: الحَبْلُ: ریشی مضبوط بنا۔
جاءت به جماعاً کرنا۔

العَسْرَةُ: بہت مضبوط۔ سناپ۔

عَسْرُ (ن ض) عَسْرًا وَعَسْرًا: الغَرِيمُ:

نمک دستی میں قرض دار سے طلب کرنا۔

الزَّمَانُ عَسْرٌ: عُلَى فَلَانٍ: مخالف

ہونا۔ عَلَيْهِ مَا لَيْ فِي نَظْمِهِ: بیٹھ میں جو کچھ

ہو اس کا لکھنا و شوار ہونا۔

عَسْرَةُ (ض) عَسْرًا: بایں جانب سے آنا۔

عَسْرَتٌ وَعَسْرَاتُهَا النَّاقَةُ: اونٹنی کا دوڑنے

میں دم اٹھانا۔ الْمَرْأَةُ: عورت کے چننے

میں دشواری ہونا۔

عَسْرُ (س) عَسْرًا: بایں ہاتھ سے کام کرنا۔

صفت مذکر عَسْرٌ صفت مؤنث عَسْرَاءٌ ج

عَسْرٌ۔

عَسْرُ (س) عَسْرًا وَعَسْرًا وَعَسْرًا

وَمَعْسُورًا وَعَسْرٌ (ك) عَسْرًا وَعَسْرًا

دشوار ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَسْرٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ" کام

اس کے اوپر دشوار ہو گیا۔ الرَّجُلُ:

بدخلق ہونا۔ صفت عَسِيرٌ وَعَسِيرٌ۔

عَسْرُ الْأَمْرِ: دشوار کرنا۔ عَلَيْهِ: نمک

کرنا۔ مخالفت کرنا۔ هُ: بایں جانب سے

آنا۔

أَعْسَرَ: نمک دست ہونا۔ الغَرِيمُ:

قرض دار سے نمک دستی میں طلب کرنا۔

أَعْسَرَتِ الْمَرْأَةُ: عورت کے چننے میں

دشواری ہونا۔

عَاسِرَةٌ مُعَاسِرَةٌ: بھلی کا معاملہ کرنا۔

تَعَسَّرَ وَتَعَاسَرَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔

وَجِبَدَ هُوَ: عَلَيْهِ الْقَوْلُ: متلبس ہونا۔

تَعَاسَرَ الْبَيْعَانُ: بائع مشتری کا متفق نہ ہونا۔

إِعْتَسَرَهُ: مجبور کرنا۔ الْكَلَامُ: عمل

تیار کرنے کی البدلہ کہنا۔

عَسْرَةٌ وَأَعْسَاسٌ وَعَسْسٌ۔

العَاسُ: رات کا چوکیدار ج عَسَسَ

وَعَسَّسَ۔

العَسَّاسُ: رات کا چوکیدار۔

العَسْوَسُ: دودھ دوہنے کے وقت بدکنے والی

اونٹنی۔ بے برکت مرد۔ شکار کو ڈھونڈنے والا۔

المَقْعَسُ: مطلب۔

أَعْسَبَ الذَّنْبُ: بھڑیئے کا بھاگنا۔ أَعْسَبَهُ

جَمَلَةٌ: اونٹ عاریت پر رہنا۔

إِسْتَسْعَبَ مِنْهُ: ناپسند کرنا۔ فَلَانًا

جَمَلَةٌ: اونٹ عاریت پر لینا۔

العَسْبُ: نسل۔ کہا جاتا ہے قَطَعَ اللَّهُ عَسْبَهُ

اللَّهُ اس کی نسل کو منقطع کر دے۔

العَسْبَةُ: ام مرقہ۔ پہاڑ میں شگاف۔

العَسْوَبُ: رئیس اعظم۔

العَسِيبُ: دم کی بڑی یا اس پر بال اگنے کی جگہ۔

پشت پا۔ کججوڑ کی نشی جس سے پتے ڈور کر دیئے

گئے ہوں۔ پہاڑ کا شگاف ج عَسْبٌ وَعَسْبٌ

وَعَسْبَانٌ۔

اليَعْسُوبُ: شہد کی زکھی۔ شہد کی کھپوں کا

بادشاہ۔ اليَعْسُوبُ: رئیس اعظم۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ يَعْسُوبُ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کا رئیس اعظم

ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ۔ گھوڑے کے چہرے کی

سفیدی ج عَسَابِينٌ۔

العَسْبِيُّ: چیتا ج عَسَابِيٌّ۔

العَسْبِيَّةُ: مادہ چیتا۔ تیز رفتار اصل اونٹنی۔

العَسْبَارُ: بچو کے ہانڈ ایک درندہ۔ اکثر افریقہ

میں پایا جاتا ہے۔ بھیرے کا بچہ۔

العَسْبُورُ وَالْعَسْبُورَةُ: کتے کا بچہ مادہ بھیریا

ہے۔

عَسَجَ (ن ض) عَسَجًا وَعَسَجَانًا و

عَسَّجًا عَسَّجًا: چلنے میں گردن اٹھانا۔

إِعْسَجَ الشَّيْخُ: بڑھے کا فہم نہ کر ہونا۔

العَوَسُجُ: ایک کانٹے دار درخت۔ واحد

عَوَسُجَةٌ۔

العَسَجِدُ: سونا۔ جو ہر ماند موتی یا قوت وغیرہ۔

مضبوط موٹا اونٹ۔

العَسَجِدِيَّةُ: شاہی سواریاں۔ اور یہ اصل میں

العَازِمُ: قا۔ ج عَزَمَةٌ وَعَازِمُونَ۔ أَمْرٌ عَازِمٌ

کام جس کا پختہ ارادہ ہو۔

العَزْوَمُ: بیش اپنے عزم پر رہنے والا۔ بویا۔

ذِرَجٌ عَزْوَمٌ۔

العَزْوَامُ: مینہ مبالغہ۔ شیر۔

العَزْوَمُ: نا۔ منتر پڑھنے والا۔

عَزَا يَعْزُو عَزْوًا: الشَّىْ أَوْ فَلَانًا إِلَى فَلَانٍ:

نسبت کرنا۔ عَزَاءُ الرَّجُلِ: جبر کرنا۔

عَزَا يَعْزُو عَزْوًا وَتَعْزَى تَعْزِيًا: اِعْتَزَى

إِعْتِزَاءً لِفُلَانٍ وَالْأَلَى فَلَانٍ: منسوب ہونا۔ ج یا

بجھوت دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرنا۔ ام

(عَزَاءٌ) ہے۔ اور اسی سے ہے "إِعْتَزَى يَعْزُو

الْبَحَالِيَّةُ"۔

العِزَّةُ: لوگوں کی جماعت ج عَزَى وَعِزْوُونَ۔

العِزْوَةُ: استساب۔ مبر۔

عَزَى يَعْزِي عَزِيًا أَوْ فَلَانًا إِلَى فَلَانٍ

نسبت کرنا۔

عَزَى يَعْزِي عَزَاءً: مصیبت پر مبر کرنا صفت

مذکر عَزٌ۔ صفت مؤنث عَزِيَّةٌ۔

عَزَى تَعْزِيَةً: الرَّجُلُ: تسلی دینا۔

تَعْزَى تَعْزِيًا: إِلَيْهِ: منسوب ہونا۔

عَتَّةٌ: مبر کرنا۔ تسلی حاصل کرنا۔

تَعَازَى تَعَازِيًا: الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو تسلی

دینا۔

العَزَى: صابر۔

العِزَّةُ: استساب۔

الإِعْتِزَاءُ: دعویٰ کرنا۔ جنگ میں کوئی خاص

علامت۔

عَسَّ (ن) عَسْنَا وَعَسْنَا رَاتٍ مِثْلَ بَاسَانِي

مِثْلَ بَاسَانِي: الخَبْرُ: دیر سے پہنچنا۔

عَسَّ: الْقَوْمُ: تھوڑا سا کھلانا۔

إِعْسَسَ: رات میں مشتہ لوگوں پر مطلع ہونا۔

الشَّىْ: رات میں طلب کرنا یا قصد کرنا۔

الْبَلَدُ: شہر میں داخل ہونا اور احوال سے مطلع

ہونا۔

العَسَسُ: رات کے چوکیدار۔ یہ جمع ہے

عَاسِئِيٌّ۔

العَسَّ: بڑا پیالہ۔ بڑا برتن۔ ج عَسَّاسٌ و

إِسْتَعْسَفَ - الأَمْرُ: دشواری پانا۔ الأَمْرُ عَلَيْهِ: سخت اور پیچیدہ ہونا۔

العُسْفُورُ والعُسْفُورِيُّ: سختی، سختی، سختی۔

العُسْفُورَةُ والعُسْفُورِيُّ والمُعْسَفَةُ والمُعْسَفَةُ: سختی اور سختی۔

الأَعْسُرُ: بٹیس ہاتھ سے کام کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "فَلَأَنْ أَعْسُوْهُنَّ" فلاں دونوں ہاتھوں سے کام کرنے والا ہے۔ "يَوْمَ أَعْسُرُ" یعنی سخت اور منحوس دن۔

العُسْفُورِيُّ: مؤنث الأَعْسُرُ: سختی، دشواری۔ المِعْسُورُ: اپنے قرض دار پر سختی کرنے والا۔ المِعْسُورُ: تنگ حال۔

عَسَفَسَ - اللَّيْلُ: رات کا گزرتا۔ رات کا تاریک ہونا۔ السَّحَابُ: بادل کا زمین سے قریب ہونا۔ الأَمْرُ: مشتبہ کر دینا۔ مَعْدِيَانَا: الشَّيْءُ: حرکت دینا ()۔ وَتَعَسَّسَ الذُّبُّبُ: بھیرے کا رات میں پھرتا۔ تَعَسَّسَ الشَّيْءُ: سو گھٹنا۔

العَسْفَسُ: رات میں شکار ڈھونڈنے والا بھیرنا۔ العَسْفَسُ: رات میں شکار ڈھونڈنے والا بھیرنا۔

سراب۔ ہر چیز میں سے ہلکا۔ عَسَفَ (ض) عَسَفَ السُّلْطَانُ: ظلم کرنا۔

جو رکرتا ہ: ظلم کرنا۔ خدمت لینا۔ الدَّمْعُ الحُفُونُ: آنسو کا پلکوں سے بکھرتا ہونا۔ الشَّيْءُ: زبردستی لینا۔ فی الأَمْرُ: بغیر سوچے سمجھے کرنا۔ لَفْلَانُ: کسی کے لیے کام کرنا۔ الظَّرِيقُ وَعَنِ الظَّرِيقِ: راستے سے ہٹ جانا۔

المَفْازَةُ: بغیر مقررہ راستے کے طے کرنا۔ کہا جاتا ہے "بَاتَ يَعْسِفُ اللَّيْلُ بِاللَّيْلِ" مقصد کی تلاش میں رات میں بے راہ چلنا۔

أَعْسَفَ: رات میں بے راہ چلنا۔ غلام سے سخت کام لینا۔

عَسَفَ: بغیر علامت نشان کے چلنا۔ البَعِيرُ: چلنے سے تھکا رہا۔

تَعَسَّفَ: فِي الْقَوْلِ: بے راہ روی کرنا۔ اے

معنی پر حمل کرنا جس پر دلالت ظاہر نہ ہو۔ عَنِ الظَّرِيقِ: ہٹ جانا۔ الأَمْرُ: بغیر سمجھے ہوئے اختیار کرنا۔ فَلَأَنَّا: ظلم کرنا۔ خدمت لینا۔

إِعْتَسَفَ عَنِ الظَّرِيقِ: راستے سے ہٹ جانا۔ الظَّرِيقُ: راستہ کو بغیر جانے پہچانے چلنا۔ الأَمْرُ: بغیر سمجھے ہوئے اختیار کرنا۔ فَلَأَنَّا: ظلم کرنا۔ خدمت لینا۔

إِنْعَسَفَ الشَّيْءُ: مڑنا۔ العَسْفُ: ظلم۔ موت۔

العَايِفُ: فَا- مِنَ الْإِهْلِ: عساف کی بیماری والا اوتھ۔ کہا جاتا ہے "نَاقَةُ عَاسِفٍ" ج عَوَاسِفِ۔ العَسَافُ: اوتھوں میں ایک بیماری۔ جس میں سانس زیادہ لیتا ہے۔

العَسُوفُ والعَسَافُ والمُعْسَفُ: بہت ظالم۔

العَيْسِفُ: مزدور ج عَسْفَاءُ وَعَسْفَةٌ۔ العَيْسِفُ: بے جانے پہچانے راستہ چلنے والا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذُوا فِي مَعَايِيفِ الْبَيْدِ وَمَعَايِيفِهَا" یعنی جنگل کے جموں راستوں میں چلنا شروع کر دیا۔

عَسِقَ (س) عَسَقًا وَتَعَسَّقَ بِهِ: چٹنا۔ عَلَيْهِ: طلب کرنے میں اصرار کرنا۔

العَسَقُ: تنگ خوئی۔ اول رات کی تاریکی۔ العَيْسِفَةُ: روی شراب۔

عَسَقَلُ - السَّرَابُ: سراب کا چمکنا۔ عَسَقَلَانَ: شام کے ساحل پر ایک شہر۔

الزَّوَسُ: سرکار پر کاہت۔ العَسَقَلُ: سانپ کی چھتری۔ ج عَسَاقِلُ۔

العَسَاقِلُ والعَسَاقِلُ: سراب۔ متفرق بادل۔ صحاح میں ہے کہ ان کا واحد نہیں سنا گیا۔

عَسِكَ (س) عَسَكًا بِهِ: لازم ہونا۔ چٹنا۔ تَعَسَّكَ: الزَّجْلُ فِي مَشْبَهٍ: تنگ کر چلنا۔

عَسَكَرَ القَوْمُ: جمع ہونا۔ اللَّيْلُ: تاریکی زیادہ ہونا۔ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ جمع کردہ کو مَعْسُكْرُ کہتے ہیں۔

العَسْكَرُ: جمع۔ انْكَرَجَ عَسَاكِرُ: ہر چیز کا بہت۔ کہا جاتا ہے "انْجَلَتْ عَنْهُ عَسَاكِرُ الْهَيْمِ" غم کی

کثرت اس سے دُور ہو گئی۔

العَسْكَرَةُ: سختی و تنگ حالی۔

عَسَلَ (ان ض) عَسَلًا وَعَسَلًا القَطَامُ: کھانے میں شہد ملانا۔ عَسَلَ وَعَسَلَ القَوْمُ: شہد کھلانا۔ شہد کا قوشہ رہنا۔ عَسَلَتِ النَّحْلُ: کھپوں کا شہد پینا۔ عَسَلَ الشَّيْءُ: شہد جیسا ہونا۔ عَسَلَ القَائِمُ: اوجھنا۔

عَسَلَ (ض) عَسَلًا وَعَسُولًا وَعَسَلًا مَا الزُّومُغُ: زیادہ حرکت کرنا۔ المَزَاةُ: جماع کرنا۔

عَسَلَ (ن) عَسَلًا وَعَسَلًا مَا المَاءُ: ہوا کی وجہ سے لہرانا۔

إِسْتَعْسَلَ: شہد طلب کرنا۔ إِسْتَعْسَلَتِ النَّحْلُ: کھپوں کا شہد پینا۔ کہا جاتا ہے عَسَلًا لَهْ بِمَعْنَى تَعَسَّالَهُ لِيَعْنِي اس کیلئے ہلاکت ہو۔

العَسَلُ: شہد (مذکر و مؤنث) ج أَعْسَلَ وَعَسَلَ وَعَسَلُ وَعَسُولُ وَعَسَلَانُ: تھوڑے سے کو عَسَلَةٌ کہتے ہیں۔ العَسَلُ: بھجور کا شہرہ۔ کہا جاتا ہے "مَا لِلْفُلَانِ مَعَسُولٌ عَسَلَةٌ" یعنی فلاں کیلئے سب نہیں۔ "مَا تَرَكْتُكَ مَعَسْرَبٌ عَسَلَةٌ" مراد یہ ہے کہ اس کو گالی دی یہاں تک کہ اس کے سب کو کاہدم کر دیا۔

أَبُو عَسَلَةَ: بھیرنا۔ العَسَلِيُّ: شہد کے رنگ کا۔

العَايِلُ (فا) والعَسُولُ: نیکو کار جس کی ثناء و صفت اچھی طرح معلوم ہو ج عَسَلُ۔ العَايِلُ: شہد نکالنے والا ج عَسَلُ وَعَوَابِلُ: بھیرنا۔ زُمُغٌ عَايِلٌ وَعَسَالٌ وَعَسُولٌ نرئی کی وجہ سے حرکت کرنے والا۔

العَسَالُ یعنی العَايِلُ۔ تَحْلِيَّةٌ عَايِلَةٌ: چھتہ مع شہد کے۔ العَسَالَةُ: چھتہ۔

العَسَالَةُ: شہد کی کھپ۔ شہد کے نکالنے والے۔ العَسِيْلُ: عطر فروش کی بھاڑ جس سے عطر جمع کرتا ہے۔ ہاتھی اور اوتھ کا عضو تاسل ج عَسَلُ۔

النَّفْسَلَةُ والمُعْسَلَةُ: شہد کا چھتہ۔ النَّفْسَلُ: مفع۔ زَجْلٌ مَعْسُولٌ: شیریں زبان۔ خوش آواز۔ مَعْسُولُ المَوَاعِيدِ: سچے

وہرے۔

عَسَلَجُ - الشجر: نرم شنیاں نکالنا۔

العَسَلُجُ - نرم شنیاں - ج عَسَالِجُ۔

العَسَلُوجُ - نرم شنیاں - ج عَسَالِجُ۔

عَسَلَطَ - غیر مربوط کلام بولنا۔

كَلَامٌ مَعَسَلَطٌ - غیر مربوط کلام بولنا۔

العَسَلَقُ - سراب - بھیڑیا - شیر - زرشتر مرغ - ہر

شکاری درندہ - بد فصلت - چست چالاک - دراز

گردن - لومڑی - ج عَسَالِقُ۔

عَسَمَ (ض) عَسَمًا و عَسُومًا فِي الْأَمْرِ:

لايُكْرَهُ - كُوشش کرنا - عَسَمَتِ عَيْتَهُ: آگہ کا

برہ پڑنا - آگہ کا بند ہونا یا بقول بعض پلک کا چپک

جانا۔

عَسِمَ (س) عَسِمًا الْقَدَمُ أَوِ الْكُفَّ: قَدَمًا يَأْتِي

بِشَيْءٍ كَالشَّكِّ هُوَ كَرِيهُرٌ هُوَ - صفت مذکر

أَعْسَمَ - صفت مؤنث عَسَمَاءُ۔

أَعْسَمَ يَدَهُ: شَكَّ كَرِيهًا - أَعْسَمَتِ عَيْتَهُ

آگہ کا ہٹنا یا بقول بعض بند ہونا۔

إِعْتَسَمَ - كَمَا لِي كَرْنَا فَلَأَنَّا: كَسَى كَوَاسَ كَيْ طَمَحَ

كِي چیر دینا۔

العَسُومُ - بَالِ بَطْنٍ كَوَ تَلْفِيظٍ يَنْجِيانَ وَالْإِنِجَ

عَسْمُ۔

العَاسِمُ - بِمَعْنَى الْعَسُومِ۔

العَسَمَةُ وَالْعَسُومُ - شَكَّ رَدِيٌّ كَيْ كَلَرُ

العَسُومُ: قَلَتُ۔

العَسَمُ - جَاءَ طَمَحَ - كَمَا جَاءَ "مَالِكُ فِي

بَيْتِي فَلَانَ مَعَسَمًا"۔

عَسِي (س) عَسِنًا الْكَلَامُ الْذَائِبُ: هَمَّاسُ كَا

بِهِمْ هُوَ نَائِرٌ وَجَانُورٌ كَامُوتَا هُوَ - عَسِنَتِ الذَّائِبَةُ

چارہ کا ہضم ہونا اور موٹا ہونا۔

عَسَنَ - الشَّيْءُ: يَدُ شَانِ تَلَّاشَ كَرًا - أَبَاهُ:

مشابہ ہونا () وَأَعْسَنَ الْمَكَانُ: كَيْفَ

بِزِي آگاہ۔

العَسَنُ - جَرِي - بَالُونَ كِي لِسَابِي وَخَوْبُصُورَتِي مَعَ

سَيدِي۔

العَسَنُ - شِلْ نَظِيرَ () وَالْعَسَنُ - جَرِي -

العَسُونُ وَالْأَعْسَنُ - مَوْتَا جَ عَسَنُ -

أَعْسَانُ الشَّيْءُ: شَانُ - كَمَا جَاءَ "هُوَ عَلِيٌّ

أَعْسَانُ مِنْ أَبِيهِ" وَهَاطَ بَابُ كَيْ مَشَابِهِ -

الْعَسْنُجُ - زَرَشْتَرُ مَرُغُ۔

عَسَا يَعْسُو عَسَاءً وَ عَسُؤًا التَّنَابُثُ: نَبَاتَاتُ

كَامُوتَا أَوْ رَحْتُ هُوَ - عَسَتِ يَدُهُ: هَاتَمَ كَا كَامُ

كَرْنِي سِي رَحْتُ هُوَ _____ اللَّيْلُ: رَاتُ كِي

تَارِكِي كَا زِيَادَةُ هُوَ - عَسَا يَعْسُو عَسُؤًا وَ عَسُؤًا

وَ عَيْبًا وَ عَسَاءً وَ عَسُوءَةَ الشَّيْخِ: بُو زَهَا هُوَ -

العَسُو - م - موم -

العَاسِي - فَا - رَحْتُ مَرَا جَ -

العَسُوءَةُ - بَرَهَا يَ -

عَسِي يَعْسِي عَسِي - التَّنَابُثُ: نَبَاتَاتُ كَا رَحْتُ

هُوَ -

عَسِي - افعال متاثرہ میں سے ہے اور جامد ہے۔

محبوب میں امید کے لیے اور کرودہ میں خوف کے

لیے مستعمل ہے۔

العَسِي وَالْعَيْسِي وَالْمُعَسَاةُ بِالْأَمْرِ: لَأَقْبُ -

مناسب۔

أَعْسَى بِهِ: فعل تعجب ہے بمعنی أَخْلِقُ بِهِ: بِعَيْنِ

كَيْ قَدِ رَلَا قَبْ -

العَاسِي - فَا - رَحْتُ خَرَامًا - يَقُولُ ابُو عَيْدٍ رَحْتُ

خَرَامَا كَا كَمَا -

المُعَسَاءُ - قَرِيبُ الْبَلُوغِ لِرَا كِي -

عَشَّ (ن) عَشًّا الشَّيْءُ: طَلَبُ كَرًا - جَمْعُ كَرَا

الْقَيْصُ: كَرْتِي مِي بِيُونَدُ لَكَانَ _____

الْمَعْرُوفُ: تَمُوْرًا سَارِيًا - عَشَبَتِ التَّخْلَةُ:

رَحْتُ خَرَامَا كِي شَاخُونَ كَا كَمُ هُوَ - عَشَّ الظَّائِرُ:

پَرْدِي كَا كَهُو نَسِي لِي مِي رَهَا -

عَشَّ (ن) عَشُوشَةً وَعَسَاشَةً وَعَسَنًا

الْبَدَنُ: لَاغَرُ هُوَ - صَفْتُ عَشَّ

عَشَّ الظَّائِرُ پَرْدِي كَا كَهُو نَسِي - بَانَا -

عَشَبَتِ التَّخْلَةُ: رَحْتُ خَرَامَا كِي شَاخُونَ كَا كَمُ

هُوَ - عَشَّ الشَّيْءُ الْكَلَامُ: هَمَّاسُ كَا نَشَكَّ هُوَ -

عَشَّ الشَّيْءُ: رَدِيٌّ مِي بِيُجُونَدِي لَكَانَا أَوْ

نَشَكَّ هُوَ -

أَعَشَّ فَلَأَنَّا عَنِ الْأَمْرِ: رَدَكَا - بَا ز رَكْنَا

_____ الظَّنِّي: هَرَنُ كَو بَحْثُ مِي بَزْ كَا نَا _____

الْبَدَنُ: بَرَنُ كَو لَاغَرُ كَرْنَا _____ الزَّجَلُ: كَمُ

رَحْتُ دَوَالِي سَرَزَمِي مِي بِيُنَجْمَا -

إِعْتَشَّ - كَهُو نَسِي - بَانَا _____ التَّنَدُّنُ: بَرَنُ كَو

لَاغَرُ رَا -

إِنْعَشَّ الْفَوْتُبُ: كَبْرِي كَا بِيُونَدُو لَا هُوَ -

العَش - م - عَطَاءٌ قَلِيلٌ - زَجَلُ عَشَّ: لَاغَرُ

مَرُو -

العَشَّ وَالْعَشَّ - كَهُو نَسِي - جَ عَشَّاشُ وَ

عَشَّاشَةٌ وَ عَشَّاشٌ وَ عَشَّوْشُ -

العَشَّةُ - كَمُ شَاخُونَ وَ لَا كَهُو رَا رَحْتُ - خَرَابُ

جَدُّ مِي آگَا هُوَ رَحْتُ - كَمُ رَحْتُ دَوَالِي سَرَزَمِي -

الْمَعَشُ - مَطْلَبُ -

الْمُعَشَّشُ - مَطْلَبُ - وَهُوَ جَدُّ جَمَا پَرْدِي كَهُو نَسِي

بَانَا -

عَشِبَ (س) عَشَبًا: شَكَّ هُوَ -

عَشِبَ (س) عَشَبًا وَعَشَبَ (ك) عَشَابَةً:

الْمَكَانُ: بَزْ كَمَا سَ وَ لَا هُوَ - صَفْتُ عَشَابُ -

عَشِبَ (ك) عَشَابَةً وَ عَشُوبَةُ الزَّجَلُ:

بَسْتُ قَدِ مَوْرَتُ هُوَ - صَفْتُ مَذْ كَرُ عَشَبُ -

صَفْتُ مَوْرَتُ عَشَبَةٌ -

أَعَشَبَ الْقَوْمُ: بَزْ كَمَا سَ پَرْدِي كَمَا جَا تَا سِي

"أَعَشَبَتِ الْفَانُولُ" هَرِي مَرِي پَرْدِي كَمَا سَ پَرْدِي كَمَا جَا تَا سِي

أَرْتَبُو -

أَعَشَبَ وَعَشَبَ الْمَكَانُ: بَزْ كَمَا سَ آگَا تَا -

إِعْتَشَبَ وَ تَعَشَبَ: بَزْ كَمَا سَ چَرْنَا - مَوْتَا هُوَ -

إِعْشُوبَةُ: بَزْ كَمَا سَ پَرْدِي كَمَا جَا تَا سِي _____

الْمَكَانُ: بَسْتُ بَزْ كَمَا سَ وَ لَا هُوَ -

العَشْبُ: بَزْ كَمَا سَ جَ عَشَابُ وَ دَا مَدُ

عَشْبَةٌ -

العَشْبَةُ: بَرَهَا پَرْدِي كِي وَ جَ سِي خَيدَةُ كَمُ مَرْدِيَا

عَوْرَتُ -

العَشَابَةُ: بَزْ كَمَا سَ كِي كَلَرَتُ -

العَشْبُ وَالْعَشْبُ وَالْمُعَشِبُ

وَالْمُعَشَبُ: بَزْ كَمَا سَ دَوَالِي (جَدُّ) بَسْتُ بَزْ

كَمَا سَ دَوَالِي (جَدُّ) أَرْضُ عَشَابَةٌ وَ عَشْبَةٌ

وَ عَشْبِيَّةٌ وَ مَعَشَبَةٌ وَ مَعَشَابُ - بَسْتُ بَزْ كَمَا سَ

دَوَالِي زَمَنُ -

الْمُعَشَابِيَّةُ: بَزْ كَمَا سَ كِي مَعْرُوقُ قَطْعِي -

العَشَابُ: بَزْ كَمَا سَ وَ لَا - بَزْ كَمَا سَ وَ لَا -

عَشَرُ (ض) عَشْرًا: دَسُ مِي سِي مِي كِي لِيَا تَا - نُو

پر ایک زائد کرنا۔ القوم: قوم میں دسواں ہوتا۔ الناقف: اونٹنی کا دس مینے کی حاملہ ہونا۔

عَشْر (ن) عَشْرًا و عَشْرًا و عَشْرًا المَال: دسواں حصہ لینا۔ القوم: قوم کے مال کا دسواں حصہ لینا۔ دسواں ہونا۔ عَشْر الحِمَار: گدھے کا دس مرتبہ ریکتا۔ عَشْر التَّاقَة: اونٹنی کا دس مینے کی حاملہ ہونا۔

أَعَشَرَ العَدُوَّ: دس کر دینا۔ القوم: دس ہونا۔ أَعَشْرَت التَّاقَة: اونٹنی کا دس مینے کی کا بھن ہونا۔

عَاشِرَة مُعَاشِرَة: باہم مل جل کر رہنا۔ اِعْتَشِر و تَعَاشِر القوم: ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔

العشر: دسواں حصہ۔ اونٹ کا دسویں یا نویں دن گھٹ پر جانا۔ ج اعشار۔

العشر: دسواں حصہ۔ ج عَشْرًا و اعشار الأعرش: پرندے کے اگلے بڑے پر۔ العشر: ہر مینے کی دسویں گیارہویں بارہویں رات۔

العشيرة: دس اور یہ مذکر کے لیے ہے۔ کہا جاتا ہے "عشيرة رجال" اور مؤنث کیلئے "عشيرة نساء" اور جب دوسرے عدد کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو گیارہ اور بارہ میں موافق قیاس کے مذکر کے لیے دونوں جزء مذکر جیسے "أخذ عشيرتي رجلاً" اور مؤنث کے لیے دونوں جزء مؤنث۔ جیسے "أخذت عشيرة امرأة" اور اس کے بعد انیس تک مذکر کی صورت میں پہلا جزء مؤنث اور دوسرا جزء مذکر جیسے خمس عشرة رجلاً اور مؤنث کی حالت میں پہلا جزء مذکر اور دوسرا جزء مؤنث جیسے خمس عشرة امرأة ج عَشْرَات۔

العشرون: بیس (مذکر و مؤنث دونوں کے لئے)۔

العشيرة: صحبت۔ مخالفت۔ العاشير: فا۔ دسواں۔ دسویں دن گھٹ پر جانے والا اونٹ ج عَشْر مؤنث عَاشِرَة: ج عَاشِر العواشير: پرندے کے اگلے بڑے پر۔

العشورى والعاشور والعاشوراء والعاشورى: محرم کی دسویں تاریخ۔ العشار: دسواں حصہ وصول کرنے والا۔

العشراء: من النوق: آٹھ یا دس مینے کی کا بھن اونٹنی ج عشار و عشاروات یا وہ اونٹنی جو بچہ جن چکی ہو۔

العشراء والعشوراء: گلی ڈنڈا۔ (بچوں کا کھیل) کہا جاتا ہے "جأؤوا عشاراً و معشوراً" یعنی دس دس آئے (یہ دونوں کلمے وصیت اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہیں)۔

قوت عشاری: دس گز لہا۔ غلام عشاری دس سال کا۔ مؤنث عشاریة۔ عشارة: دسواں حصہ۔

الأعشاری: اعشار جمع عشر کی طرف منسوب۔

العشيرة: قبیلہ۔ قریب۔ دوست۔ زوج۔ زوجہ ج عَشْرَاء۔

العشيرة: دسواں حصہ۔ ج أعشیراء۔ العشييرة: قبیلہ۔ عشييرة الرجل: برادران باپ کی جانب سے قریبی لوگ۔ ج عَشَائِر۔ وعشييرات۔

المعشر: جماعت۔ آدمی کے اہل۔ جن۔ انسان ج معاشير۔

المعشار: دسواں حصہ۔ ناقف معشار: بست روہ والی اونٹنی۔

العشارب والعشرب: شیر زجل عشارب دیر مرد۔

عشيرة (ض) عَشْرَات: کئی ہوئی ٹانگ والے کی طرح چلنا۔ غلی عَصَا: لاشمی پر ٹیک لگانا۔

العشور: دشوار گزار راست یا زمین ج عشاوڑا والعشور: مضبوط۔ قوی۔ موٹا۔

عشيقه (س) عَشِيقًا و عَشِيقًا و عَشِيقًا بست نخبت کرنا۔ نخبت میں حد سے بڑھ جانا۔ صفت مذکر عاشيق ج عَشِيق و عاشيقون۔ صفت مؤنث عاشيقَة و عاشيق ج عَوَاشِيق عَشِيق بالشئ: چمٹنا۔

عَشِيقٌ: بکلف عاشق بنا۔ ہ: بست نخبت کرنا۔

العشيق: نخبت کی زیادتی۔ پارسانی اور فسق دونوں طرح سے ہوتا ہے۔

العشيقَة: عشق۔ عجان۔ بیلو۔ ج عشيق۔ العشييق: عاشق۔ معشوق۔ العشييق والعشوق: پھولوں کے پودوں کی دیکھ بھال کرنے والا ج عشيق۔

العشاق والعشييق: بست زیادہ عشق والا۔ عِشَم (س) عِشَمًا و عِشَمًا و تَعِشَم الشئ: خشک ہونا۔

العشم: لالچ۔ خبز عشم: سوکھی یا خراب روٹی۔

العشمة: لالچ۔ خشک روٹی۔ لاغری کی وجہ سے خشک۔ پیر فروت (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے "ضبخ عشمًا و عَجْوًا و عشمًا"۔

خَبْر عِشَم خشک یا خراب شدہ روٹی۔

الأعشم: دو قلوٹ رنگ۔ خشک درخت۔ عمر رسیدہ بوڑھا۔ مؤنث عشماء۔

عَشَن (ن) عَشْنَا و عَشَن و عَشَن و اعشش: رائے لگانا۔ تخمینہ کرنا۔ اعشش فلانًا: تاخیر عملہ کر دینا۔

العشان والعشانة: گرمی ہوئی ردی کھجوریں۔ العشانة: کھجور کی شاخ کی جڑ۔

عشاي عشو عشو: روتوں والے کی طرح کام کرنا۔ الإبل: اونٹوں کو رات میں چرانا۔

الزجل: رات میں قصد کرنا۔ ه والیہ قصد کرنا اور بخشش طلب کرنا۔ عنة: اعراض کرنا اور دوسرے کی طرف مائل ہونا)۔

عشوا وعشيًا: الزجل: رات کا کھانا کھلانا)۔ عشوا وعشوا: النار والی النار: رات کو آگ کی طرف راست پانے یا مسلمان کی امید میں جانا)۔ عشوا وعشي يعشيان (عشًا) نگاہ کزور ہونا۔ روتندی ہونا۔ صفت عش و اعشيان۔ عشي العشاء: رات کا کھانا کھانا۔ صفت عشيان۔ عشي عليه: ظلم کرنا۔ عشيبت الإبل: اونٹ کا رات میں چرنا۔ صفت عاشبة ج عواشير۔

والغضب: عشت عجان۔
 العصب: دم۔ چما۔ قوم کے چیدہ لوگ۔ عشت
 عجان: عاصبا۔
 العصبية: عصب کا واحد۔ باپ کی جانب سے
 رشتہ دار۔ عصبیات۔
 العصبية: بی بائدے کی بیعت۔
 العصبية: من الرجال والنساء والظئير:
 مردوں یا گھوڑوں یا پرندوں کی جماعت۔ ع
 غضب
 العصاب: جس سے باندھا جائے۔
 العصابة: جماعت مردوں، گھوڑوں، پرندوں
 کی پگڑی۔ عامر۔ بی۔ ع عصاب۔
 العاصب: فاجر، جمل، عاصبت: وہ شخص جس
 کے منہ پر شوک خشک ہو جائے۔
 العصب: بچھڑا، عصب: عصب: وہ شخص جو
 ہٹا ہوا عصب و اعصاب۔ عصب: عصب:
 سخت گرم۔
 العصب: دم دہل ظاہر ہو جانے کے بعد بھی
 حق کو نہ قبول کرنا۔ عصبیات۔
 العصبية: قوم کی عصیت کی بنا پر ظلم میں مد
 کرنے والا۔
 العصبية: دم دہا بندی۔
 العصب: مغر۔ سردار۔ تاج پہننے والا۔ فقیر۔
 بھوکا۔
 العصب: مغر۔ باریک گوار۔ کہا جاتا ہے
 "جمل مفضوب الخلق" یعنی مضبوط بناوٹ
 کا پر گوشت۔
 العصب: سخت گرم دن یا مطلقاً سخت۔
 عصب (ض) عصباً و اعصباً: الشئ:
 موڑنا۔ گرہ دینا۔ کہا جاتا ہے "عصبه علی
 الأقر" یعنی اس کو کام پر مجبور کیا۔
 عصباً: الزجل: مرنا۔
 العصب: گرہ لگایا ہوا۔ موڑا ہوا۔
 العصبية: ایک قسم کا کھانا جو گھی آٹا ملا کر پکایا
 جاتا ہے۔
 عصب (ض) عصباً: العصب او القوب: انجور
 یا کپڑے کو نچوڑنا۔ الذمل: چوڑے کو
 نچوڑ کر پیپ نکالنا۔ الرخص القوس:

سرگردانی میں ہیں۔ و "زكيب العشواء" یعنی
 اپنے کام کو بغیر ہدایت کے اختیار کیا۔ العشواء:
 تاریکی، مجبور۔ مجبور کا درخت۔
 عصب (س) عصباً و عصباً: سخت ہونا۔
 عصب علی عزمیہ: قرض دار سے اصرار
 کرنا۔
 العصب: اصل۔ کہا جاتا ہے "هو كرم
 العصب"
 العصب والعصب: دم کی ہڈی۔
 عصب (ض) عصباً الشئ: لپیٹنا۔ موڑنا۔ بیٹنا۔
 باندھنا۔ العصب: روئی کا تاج۔ الریق: بالقم:
 توک کا منہ پر خشک ہونا۔ الناقه: دوڑنے
 کے لیے اونٹنی کی رانیں باندھنا۔ الزجل:
 بیعت۔ اقامت کرنا۔ العبا: اسہ: سر پر
 غبار لگ جانا۔ القوم: یہ: اجتماع کرنا۔ احاط
 کرنا۔ عصباً و عصباً: الامثال: داستانوں
 کا میلا ہونا۔ الألق: کنارہ آسمان کا سرخ
 ہونا۔ عصباً و عصباً: الشئ: بقتل کرنا۔
 عصب (س) عصباً اللحم: گوشت کا زیادہ
 پشمے والا ہونا۔ صفت۔ عصب القوم: یہ:
 اجتماع کرنا۔ احاط کرنا۔
 عصب: بھوکا رکھنا۔ ہلاک کرنا۔ بی باندھنا۔
 عصب فلاناً: سردار بنانا۔
 اعصب الإبل: اونٹوں کا تیز چلنا۔
 عصب: بی باندھنا۔ عصیت سے کام لینا۔
 سردار ہونا۔ لؤ و معة: نائل ہونا اور مدد کی
 کوشش کرنا۔ علیہ: مقابلہ کرنا اور
 عصیت دکھانا۔ فی ذیہ و مذہبہ: دین و
 مذہب میں غیور ہونا اور سخت حفاظت کرنا
 بالشئ: راضی ہونا۔
 اعصب القوم: گرہ دینا۔ المملک:
 بادشاہ کا تاج پہننا۔ التاج علی زابہ: تاج
 کا سر پر فٹ ہونا۔ بالشئ: جماعت کرنا اور
 راضی ہونا۔
 انعصب الشئ: سخت ہونا۔
 اعصب الشئ: سخت ہونا۔ القوم:
 جمع ہونا اور گرہ دینا۔
 العصب: عامر۔ پگڑی۔ ایک قسم کی چادر

عشى عشيّة. الزجل: شام کا کھانا کھانا
 الظئير: آگ روشن کر کے اندھا بنا کر
 شکار کرنا۔ عن الشئ: نرمی برتنا۔ ملاطفت
 کرنا۔ الإبل: اونٹ کو رات میں چرانا۔
 اعشى اعشاء الزجل: دینا۔ رات کا کھانا
 کھانا۔ اللہ الزجل: رتوں میں جملہ کار
 دینا۔
 تعشى: رات کا کھانا کھانا۔
 تعاشی: رتوں والا ظاہر کرنا۔
 عنة: جابل بنا۔
 اعشى اعشاء: عشا کے وقت چلنا
 التار: رات میں دیکھنا اور قصد کرنا۔
 استعشى استعشاء نازاً: آگ کی روشنی
 میں راست پانا۔ الزجل: شہ پر پانا۔
 العشاء: شام کا کھانا۔ عشاء:
 العشاء العشاء: نگاہ کی کمزوری۔ رتوں کی۔
 العشي: شام کا کھانا۔
 العشاء والعشي: رات کی ابتدائی تاریکی
 اور بقول بعض مغرب سے عشاء تک کی تاریکی۔
 یادوں کا آخری حصہ۔
 العشاء ان: مغرب اور عشا۔ بغير عشي
 رات کو دیر تک چرنے والا۔
 العشيّة: شام عشي وعشایا وعشایات
 اور نسبت کے لیے عشویّ۔ العشيّة: بادل۔
 العشوة: تاریکی۔ رات کے اوّل رنج کی
 تاریکی۔
 العشوة والعشوة: آگ کا شعلہ جو رات کو
 دور سے دکھائی دے۔
 العشوة والعشوة والعشوة: امر مشتبہ کو
 کرنا۔ کہا جاتا ہے "أوظأه عشوة" یعنی اس نے
 اسے امر مشتبہ میں پھنسا دیا اور یہ اس وقت کہ
 جب کوئی ایسی خبر دے کہ جس کی وجہ سے حیرت
 و مصیبت میں پڑ جائے۔
 العشواء: مؤنث الأعشى۔ اونٹنی جس کو
 سامنے نظر نہ آئے۔ کہا جاتا ہے "هو یخبط
 تخبط عشواء" یعنی وہ امور میں بغیر کسی بصیرت
 کے تصرف کرتا ہے۔ "هو أخطب من عشواء"
 و "إنهم ليقن عشواء من أمرهم" یعنی حیرالی و

بینه لنا _____ الشئ عنة؛ منع کرنا
 فلاناً: تکرار کرنا۔ عطیہ دینا۔
 عصر الشئ: بار بار نچوڑنا _____ الزرع
 کھیتی میں خوشے ٹکانا۔ عصرت المزاة:
 عورت کا بالغ ہونا۔ حیض آنا۔
 أعصر۔ عصر کے وقت میں داخل ہونا۔
 أعصرت المزاة: عورت کا بالغ ہونا۔ حائضہ
 ہونا۔ صفت مفصّر: ج معاصیر و معاصیر
 الریح: ہوا کا بولہ لانا۔
 أعصر القوم: بارش کیا جانا۔
 عاصرة معاصرة: ایک زمانہ میں ہونا۔
 تعصّر: نچوڑا جانا _____ یہ: بناہ لینا۔
 اعتصرت العنب او الثوب ونحوهما: انگور
 یا کپڑا وغیرہ نچوڑنا _____ العصير: شراب بنانا
 _____ العطية: عطیہ واپس لینا _____ من
 فلان مالا: تداون میں یا کسی دوسرے طریقہ
 سے مال لینا _____ من الشئ: لینا _____
 بفلان: بناہ لینا _____ علیہ: بچل کرنا۔ کہا جاتا
 ہے "اعتصم بالماء ما عاص به من الطعام"
 کمانے کو حلق سے نیچے اتارنے کیلئے تھوڑا پانی
 پیا۔
 انعصر: نچوڑنا _____ العنب ونحوه: شیرہ
 نکل جانا۔
 العاصير: ج عصرة و عاصرون مؤنث
 عاصرة ج عواصير و عاصرات: زجل
 عاصیر: بے برکت۔ بخیل۔
 العصر: دن۔ رات۔ دن کا آخری حصہ۔
 آفتاب کے سرخ ہونے تک۔ صبح۔ قبیلہ۔ گروہ۔
 عطية ج عطر و عضور۔ العصران: صبح شام۔
 دن۔ رات۔ کہا جاتا ہے "جاءني عسرا" وہ
 میرے پاس دیر میں آیا۔
 العصر والعصر والعصر: زمانہ ج عضور
 وأعصر وعصرو وأعصار۔ اور أعصار کی جمع
 أعاصير۔
 العصر والعصر والعصر: زمانہ
 جاتے بناہ۔
 العصر: عصر۔ سکون الصادق ایک لخت ہے
 بمعنی زمانہ۔ غبار۔ خوشبو کی بھڑک۔

العصرة: خوشبو کی بھڑک عاصیر کی جمع۔ غبار۔
 بگولہ۔
 العصير والعصيرة والعصار: رس۔ نچوڑ۔
 العصير: نچوڑا ہوا۔
 العصار: سخت غبار۔ وقت۔
 العصاراة: رس۔ نچوڑ۔ نچوڑنے کے بعد
 پھوس۔ کہا جاتا ہے "زجل" کنہم العصاراة"
 یعنی سوال کے وقت جو اد و کئی۔
 الإعصار: بگولہ ج عاصیر و أعاصیر۔ کہتے
 ہیں "وعدہ أعصار لئیس بعدہ إعصار" یعنی
 اس کے وعدہ کے لیے وفا نہیں۔ اس قول میں پہلا
 اعصار بمعنی بگولہ اور دوسرا اعصار مصدر ہے۔
 أعصر القوم کا بمعنی بارش ہونا۔
 المنعصرة والمعصر: نچوڑنے کی جگہ۔ کہا جاتا
 ہے "هو كثرهم المعصر" یعنی سوال کے وقت
 کئی ہے۔
 المعصر والمعصرة: انگور وغیرہ نچوڑنے کا
 آلہ۔
 المعصار: وہ چیز جس میں کچھ نچوڑیں۔
 المعصرات: بادل۔
 الغصص والغصص: دم کی بڑی۔ ج
 عصاصع۔ الغصص: مردک خیر دشوار خو۔
 مغبوطا توڑنا۔
 الغصص: دم کی بڑی۔ ج عصاصع۔
 عصفت (ض) عصفاء و عصفوا الریح: ہوا
 کا تیز چلنا۔ صفت عاصفة و عاصف القافة:
 بڑا کھینچا: اونٹنی کا تیز لے جانا _____ الزجل:
 دوڑنا۔ عصف الشئ: مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "عصفت الحزب بالقوم" جگہ نے قوم کو تباہ
 ویرا کر دیا۔ "عصف الذہر بهم" زمانے نے ان
 کو ہلاک کر دیا _____ واعتصف: عینالہ: بال
 بچوں کے لیے کمانا۔
 عصف (ن) عصفاً الزرع: کھیتی تیار ہونے
 سے پہلے ٹکانا۔
 أعصف الزرع: کھیتی کا کٹنے کے لائق ہونا۔
 أعصفت الریح: ہوا کا تیز چلنا۔ صفت مفضفة
 ومفصّف ج معاصيف و معاصيف _____
 الزجل: ہلاک ہونا۔ راستے سے ہٹ جانا۔

أعصفت الحزب بهم: تباہ ویرا کر دینا۔
 استعصف الزرع: تیار ہونا۔
 العصف: مد۔ کھیت کے پتے۔ عصف
 الین: گھاس کے ٹکے۔ عصف الأملدو وغیرہ
 اشد وغیرہ کا غبار۔
 العصفة: عصف۔ کا اسم مرہ۔ شراب کی بو۔
 کھیتی کے ڈھل کے پتے۔
 العاصف: فار۔ سہم عاصف: نشانہ سے
 ٹیڑھا تیر۔ بزم عاصف: تیز ہوا کا دن۔
 العاصفة: مؤنث عاصف ج عاصفات
 وعواصف۔
 العصوف: تیز ہوا۔ ج عصف۔
 العصيف: تیز ہوا۔
 العصيفة: پتے کہ جن کے درمیان میں خوش
 ہو۔
 الغصافة: ٹکے جو خوشے سے گریں۔ کوڑا
 کرکٹ جس کو ہوا اڑا کر لائے۔
 عصفرة الثوب: کپڑے کو زرد رنگ سے
 رنگنا۔
 تعصفر: الثوب: زرد رنگ سے رنگا ہوا
 ہونا۔ تعصفت العنق: گردن ٹیڑھی ہونا۔
 العصفر: زرد رنگ۔
 العصفور: چڑیا۔ کبوتر سے ہر چھوٹا پرندہ ج
 عاصير مؤنث عصفورة۔ العصفور:
 پیشانی۔ پیشانی کے بال کے نکلنے کی جگہ۔
 کلزی جس سے پالان کے سرے ہاندھے جاتے
 ہیں۔ گھوڑے کی پیشانی کی بڑی اٹھی ہوئی اور وہ
 دائیں بائیں دو ہوتی ہیں۔ کتاب۔ کشتی کی میخ۔
 سردار۔ کہا جاتا ہے "نقت او صاحب عصا
 فيرتظنه" یعنی بھوکا ہوا۔
 العصفورة: گل خیری کا زرد پھول۔
 العصفول: نر مڈی۔ ج عصافيل
 العصافيل: بگولہ۔
 عصل (س) عصلاً الشئ: سختی کے ساتھ
 ٹیڑھا ہونا۔ صفت عصل و اعصل مؤنث
 عصلة و عصلاء ج عصال وعصل _____
 واعصل سخت ہونا۔
 عصل (ن) عصلاً الثود: کلزی کو ٹیڑھا

کرنا۔

عَصَلَ السَّهْمُ: تیر کا ٹیڑھا ہونا۔ ویر کرنا۔

العَصَلُ وَالْعَصَلُ: آنت جِ اعْصَالَ۔

المِفْصَلُ: قرض دار پر غنی کرنے والا۔

المِفْصَالُ وَالْمِفْصِيلُ: ٹیڑھے سر کی لاشی

اور جس کو عام لوگ "مُعْقِلَةَ" یا "بَاكُور" کہتے

ہیں۔ ذُذْرًا جِ مِعَاصِيلُ۔

عَصَلَبَ: سخت ٹھنڈا ہونا۔ سخت پیٹھے والا

ہونا۔

العَصَلَبُ وَالْمِعْصَلَبُ وَالْمِعْصَلِبِيُّ

وَالْمِعْصَلُوبُ: بڑے ذیل ڈول کا مضبوط مرد۔

عَصَمَ (ش) عَضَمًا الزَّجْلُ: کماٹی کرنا۔

الشَّيْ: روک لیتا۔ اللّٰهُ فَلَأَنَّا مِنَ

الْمَكْرُوهُ مَحْفُوظٌ رَحْمًا۔ پچانا۔ عَصَمَ الْقَرْيَةَ:

ملک کو رستی سے باندھنا۔ اِلَى فَلَانٍ: پناہ

لیتا۔

عَصِمَ (س) عَصَمًا الظَّنِّي: سفید ٹانگوں

والا ہونا۔

أَعَصَمَ بِهِ: پکڑنا اور لازم ہونا۔

بِالْقَرْسِ: ایال پکڑنا۔ مِنَ الشَّرِّ: باز

رہنا۔ الْقَرْيَةَ: رستی سے باندھنا۔

إِعْتَصَمَ بِهِ: ہاتھ سے پکڑنا۔

بِصَاحِبِهِ: لازم ہونا۔ بِاللّٰهِ: اللہ کی

مراہی سے گناہ سے باز رہنا۔ مِنَ الشَّرِّ

وَالْمَكْرُوهُ: پناہ لینا اور باز رہنا۔

إِعْتَصَمَ مَحْفُوظٌ ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَصَمْتُهُ

فَأَنْعَصَمَ" میں نے اس کی حفاظت کی اور وہ

محفوظ ہو گیا۔

إِسْتَعَصَمَ بِهِ: مضبوط پکڑنا اور لازم ہونا۔ پناہ

لینا اور باز رہنا۔ پچانے والی چیز کا قہر کرنا۔

العَصْمُ وَالْعَصْمُ: ہریز کا بقیہ۔ خضاب وغیرہ

کا اثر۔

العَصَامُ: سرد۔ دُم کا باریک حصہ۔ مِنَ

الْقَرْيَةِ: ملک باندھنے کی رستی۔

مِنَ الْوَعَاءِ: دستہ۔ عمد۔ اور یہ باپ مجاز سے ہے

جِ أَعَصِمَتْهُ وَعَصَمَ وَعَصَامُ۔

العَصَائِي: نعمان بن منذر بادشاہ حیرہ کے

مجاہد عصام کی جانب نسبت۔ ذَاتِي شُرَافَتِ

رکھنے والا اور اسی سے مثل ہے "كُنْ عَصَائِيًّا لَا
عِظَائِيًّا" یعنی عصام کی طرح ذاتی شرافت پیدا کرو
آباد و اجداد جو مردہ ہو چکے ہیں ان کی ہڈیوں پر مت
فخر کرو۔

العِصْمَةُ: پیاز۔ گناہوں سے بچنے کا ملکہ۔

العِصْمَةُ: گوند۔ پد جِ عِصْمٌ وَعِصْمٌ وَ

عِصْمَةٌ جِ أَعْصَامُ۔

العِصْمَةُ: گوند۔ پد۔

الأَعْصَمُ: اگلے ایک یا دونوں سفید پاؤں والا

جانور۔ مَوْتٌ عِصْمًا جِ عِصْمٌ۔

العِصْمِيُّ: ہمیند۔ ہریز کا بقیہ۔ خضاب وغیرہ کا

اثر۔

العِصْمُومُ وَالْعِصْمُومُ: بہت کھانے والا (تذکرہ

مَوْتٌ)

العَاصِمَةُ: مدینہ منورہ کا لقب۔ دار السلطنت۔

جِ عَوَاصِمُ۔

المِعْصَمُ: کلائی جِ مِعْصَامُ۔

المِعْتَصِمُ: پناہ لینے کی جگہ۔

عَصَا يَعْصُو عَضُوًّا الزَّجْلُ: لاشی سے مارنا

_____ الْجُرْحُ: زخم کو باندھنا۔ الْقَوْمُ: تنگی

یا بڑائی پر جمع کرنا۔

عَصِي يَعْصِي عَصًا لَاشِي لِيَا (_____

وَإِعْتَصَى) بِالسَّيْفِ: تلوار مارنا۔ وَاعْتَصَى

الشَّيْ: کسی چیز کو لاشی بنانا۔ إِعْتَصَى عَلَيْهِ:

تکیا لگانا۔

عَصِي تَعْصِيَةً فَلَأَنَّا الْعَصَا: لاشی دینا۔

أَعْصَى إِعْصَاءً: الکرم، شائیں لگانا اور

پھل نہ آنا۔

عَاصَاهُ مِعَاصَاةً فَعَصَاهُ: لاشی سے مار پیٹ

کرنا اور غالب آنا۔

العَصَا: لاشی۔ سارے کی چیز (مَوْتٌ) جِ

عَصِي وَعَصِي وَعَصِي وَأَعْصَى وَأَعْصَاءُ اور عَصِي

عَصَوَانُ الْعِصَاءُ: اجتماع۔ جماعت۔ پڈلی کی

بڑی۔ زبان۔ کہا جاتا ہے "شَقَّ الْعِصَا" جماعت کی

مخالفت کی۔ "إِنْشَقَّتْ عَصَا الْقَوْمِ" آپس میں

اختلاف پڑ گیا۔ "فَرَعَ لَهُ الْعِصَا" شنبہ کیا "فَقَشَرُ

لَهُ الْعِصَا" عندیہ ظاہر کر دیا "فَرَعَهُ بَعْضًا

الْمَلَامَةِ" حد سے زیادہ ملامت کی "أَلْفَى

المُسَافِرُ الْعِصَا" مسافر اپنی جگہ پر کھینچ گیا۔ أَلْفَى
عَصَا التَّزْحَالِ یعنی اس نے اقامت کی "النَّاسُ
عَبِيدُ الْعِصَا" یعنی جو تکلیف پہنچاتا ہے لوگ
اس سے ڈرتے ہیں۔

العِصِيَّةُ: عصا کی تعمیر۔ جموں ٹانڈا۔

عَصَى بَعْضِي عَصِيًّا وَمَعْصِيَةً سَيِّدَهُ:

نا فرمائی کرنا۔ مخالفت کرنا۔ دشمنی کرنا۔ مفت

خاص جِ عَصَاةٌ وَعَاصُونَ _____ الطَّائِرُ:

پرنده کا اڑنا۔ العِزْفِيُّ: رگ سے خون بند

نہ ہونا۔

عَاصَاهُ مِعَاصَاةً وَتَعْصَى عَلَيْهِ تَعْصِيًّا۔

نا فرمائی کرنا۔ تَعْصَى الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔

إِعْتَصَمْتُ إِعْصَاءً التَّوَّابُ: ستملی کا سخت

ہونا۔

إِسْتَعَصَى سَيِّدَهُ: مالک کی نا فرمائی کرنا

_____ الشَّيْ عَلَيْهِ: دشوار ہونا۔ سخت ہونا۔

العِصِي: نا فرمان۔ گنہگار جِ عِصِيُونُ

وَأَعْصِيَاءُ۔

العِصَاءُ: نا فرمان۔ گنہگار جِ عِصَاؤُنُ

المَعْصِيَّةُ: گناہ۔ لغزش جِ مِعَاصِي۔

عَصِيَّةُ (س) عَصِيًّا وَعِصِيَّةً دَانِتَ سے

پکڑنا۔ کانا۔ نا اور علی کے صلہ کے ساتھ عَصِيٌّ

یہ اور عَصِيٌّ عَلَيْهِ بھی بولا جاتا ہے۔ _____ هِ

الزَّمَانُ: سخت ہونا الشَّيْ: لازم ہونا اور پکڑنا۔

عَصِيَّةٌ بہت کانا۔

عَاصَمْتُ مِعَاصَةً وَعِصَاةً الدَّوَابُّ:

جالوروں کا ایک دوسرے کو کانا۔

أَعْصَبَ الشَّيْ: دانت سے کٹوانا۔ أَعْصَبَ

البُؤُ: بہت پانی والا ہونا۔

تَعَاصَا: ایک دوسرے کو دانت سے کانا۔

العِصَى: بد خلق۔ غیبی۔ بجلی۔ بہت قوی۔

معیبت۔ ہمسرہ مال کا تنظیم جِ أَعْصَاضُ

وَعِصْوُضُ العِصَى: جموں ٹانڈے دار درخت جِ

أَعْصَاضُ۔

العِصَى: جو۔ گیہوں۔ اہست۔ سوکھی گھاس۔

جموں ٹانڈے دار درخت۔

العِصَاضُ: جو چیز دانت سے کالی جائے اور

کھائی جائے۔ موٹا درخت۔

برف المعضل المعضلانی۔ گور خر۔ ج۔ عضاروس۔
العضرط۔ کمانے پر مزدوری کرنے والا۔ ج۔
عضارطو عضارطة۔
العضرطو العبرط۔ کینہ۔
قزم عضارنط۔ فقیر لوگ۔
عضل (ن) عضلاً۔ علیہ۔ بھلی کرتا۔ منع
کرتا۔ بہ الأمر: سخت ہونا۔ الزجل: منع
عضد پر ہانا۔

عضل (ض ن) وعضل (س) عضلاً
وعضلاً وعضلاً المزاة عن الزواج: نکاح
کرنے سے روکنا۔ منع کرتا۔ الزجل: منع
رائز کرنا۔
عضل (س) عضلاً۔ بہت سخت گوشت والا
ہونا۔ چنڈی کا عضلہ کا موٹا ہونا۔ صفت عضل و
عضل۔

عضل علیہ: بھلی کرتا۔ کسی کے حصول مقصد
میں حائل ہو جانا۔ عضل المزاة عن الزواج:
نکاح کرنے سے روکنا۔ المکان: ٹھک
ہونا۔ کہا جاتا ہے "عضلت الأرض بأهلها"
لوگوں کی کثرت کی وجہ سے زمین ٹھک ہو گئی۔
عضلت المزاة أو الذجاجة وغیر ہما من
الحیوان یولدھا بچہ بننا وشار ہو گیا۔ صفت
معضل۔

أعضل الأمر: سخت ہونا۔ مشکل ہونا۔
أعضلت المزاة ونحوها من حیوان
یولدھا: بچہ بننا مشکل ہونا۔ صفت معضل
ومعضلة ج معاضیل۔ أعضل بہ الأمر:
مشکل ہونا۔ حیوان کا ٹھک ہونا۔ الأمر
فلاناً: غالب آنا اور عاجز کرنا۔ أعضلنی
فلاناً: فلاں کے کام نے مجھ کو تھکا دیا۔ عاجز کر دیا
وتمضل الذاء الأطفیاء: بیماری کا اطباء
کو عاجز کر دیا۔

العصل۔ بہت بڑا۔ بڑا ہالاک۔
العصل۔ بڑا چم۔ ج۔ عضلان۔
العصلة۔ سخت گوشت۔ گوشت ٹپے کا مجموعہ
ج عضل وعضلات۔ العصلة: کثیر کے
مشابہ ایک درخت۔
العصيلة۔ بمعنی عضلة ج عضائل۔

نکل جاتا۔
عاضدة معاضدة۔ مدد کرتا۔
تعاضدوا۔ ایک دوسرے کی مدد کرتا۔
اعتضدو تعضدة۔ بخل میں لینا۔
اعتضد بہ: مدد مانگنا۔ مضبوط ہونا۔
استعضد الشجرة: درخت کو ہنسیا سے کاٹنا
القمره: پھل چننا۔

العصد۔ ہم۔ مددگار۔ گوشہ۔ ج۔ أعضاد۔
العصد والعصد والعصد۔ بازو ج أعضاد
وَأَعْضُدُ۔
عَضُدٌ كُلُّ شَيْءٍ وَعَضْدُهُ وَأَعْضَادُهُ وَهَ جِزْرٌ
جس سے عمارت کے ارد گرد مضبوط کی جائے۔
جیسے حوض کے کنارے پتھر کھڑے کر دیے جائیں۔
عَضُدُ الظرفی: راستہ کا پلو۔ کہا جاتا ہے "فَلْتَّ
لِطِي عَضْدِهِ" یعنی اپنے اعوان و انصار سے جدا
ہو گیا۔

العصد۔ کتا ہو اور درخت۔ قوہ۔ اونٹ کے بازو
میں ایک مرض۔ جھائے ہوئے ہے۔
العصاد۔ پست قدم یا مرد یا عورت۔ موٹے بازو والا۔
العصاد۔ بازو بند۔ تعویذ وغیرہ جو بازو پر باندھا
جائے۔ در راقی۔ ہنسیا۔ اونٹ کے بازو میں علامت۔
العصادة من الظرفی: راستہ کا پلو۔ عضاداً
التياب: چوٹ کے دونوں بازو۔
کہا جاتا ہے "فَلَانٌ عَصَادَةٌ فَلَانٌ" فلاں فلاں کا
معاونہ و مددگار ہے۔

العصادي والعصادي والعصادي: موٹے
بازو والا۔
العصيدة۔ کھجور کے درختوں کی قطار۔ درخت
سے کٹا ہوا۔ ج۔ عضدان۔
الأعصد۔ ڈبے بازو والا۔ جس کا ایک بازو چھوٹا
ہو۔

القواضد۔ درخت خراب جو نسر کے دونوں جانب
ہوں۔
المعضد۔ درخت کاٹنے کا ہنیاج معاضد۔
المعضاد۔ بازو بند۔ ہڈی کاٹنے کی بڑی چمیری۔
ہنسیا۔ در راقی۔
المعضدة۔ تھیلی۔ بڑھ۔
العصرس والعصارس۔ سردی، اولے،

العصاض۔ دانت سے کاٹنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
عَصَاضٌ عَيْشٌ" یعنی سخت زندگی پر بڑا صابر
ہے۔
العصينص۔ ہم۔ سخت کاٹ۔ ہمسر۔
العصوض والعصاض۔ بہت کاٹنے والا۔ بیٹھ
عصوض بہت پانی والا کتواں۔
العصاض والعصاض۔ ناک کا اوپر کا سخت
حصہ۔

عَصَبٌ (ض) عَصَبًا قَطْعٌ كَرْتَا _____ وَ
المرض: حرکت سے روکنا۔ ہا بالوضع:
نیز ہمارا۔ ہا بالعصا: لاشی ہارنا۔ ہا
عن الأمر: روک دینا۔ ہا پلستایہ: گلی
دینا عَصَبٌ عَنَهُ: رجوع کرنا (_____
وَأَعْصَبُ)
التالفة ونحوها: اونٹنی کا کان بھاڑ دینا۔

عَصَبٌ (س) عَصَبًا الكَنْشُ: مینڈھے کا
پھنے ہوئے کان والا ہونا۔ ٹوٹے ہوئے سینگ والا
ہونا۔

عَصَبٌ (ک) عَصُونًا وَعَصُونَةً: حرب
زبان ہونا۔
عاصبة معاصبة۔ القرن: سینگ کا ٹوٹا جانا۔
العصب۔ تیز گوار۔ حرب زبان۔
الأعصب۔ بچے کاں والا۔ ٹوٹے سینگ والا۔
جس کا لہائی نہ ہو۔ بے مددگار۔ مؤنث عَصْبَاءُ ج
عُصْبٍ۔

العصاب۔ بہت کاٹنے والا۔ بہت گلی دینے
والا۔
المعصوب۔ کمزور۔ لجا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ
لَمَعْصُوبُ اللِّسَانِ" جب کہ بولنے میں عاجز
ہو۔

عَصَبٌ عَصْبَةٌ الكَلْبُ: شیر کی مانند ہونا۔
العصباة: بچل کلاٹ۔ دھرمی کا پتھر۔
عَصْدُهُ (ن) عَصْدًا۔ مدد کرتا۔ بازو ہارنا۔
عَصْدٌ (ض) عَصْدًا الشجرة: درخت کو
ہنسیا سے کاٹنا۔ اونٹوں کیلئے ہے جھاڑا۔
عَصْدٌ (س) عَصْدًا وَعَصْدًا عَصْدًا۔ بازو میں
درو ہونا۔ صفت عَصْدٌ مؤنث عَصْدَةٌ۔
عَصْدٌ وَعَصْدٌ السَّهْمُ: تیر کا واکیں بائیں

<p>فلک کہتے ہیں۔ (مصرف غیر متصرف) عَطَسَ (ان ض) عَطَسًا وَعَطَاشًا جَعِبَانًا الصُّنْحُ: پو پھنا۔ روشن ہونا۔ کہا جاتا ہے عَطَسَ فُلَانٌ وَعَطَسَتْ بِهِ اللَّجْمُ: یعنی مر گیا۔ عَطَسَ: جھینکوانا۔ العاطس: نا۔ سانسے سے آنے والا ہرن۔ صُح۔ العاطوس: ناس۔ عوام عطوس کہتے ہیں۔ ایک نموس چوپایہ۔ المعطس والمعطس: ناک۔ ج معاطس۔ کہا جاتا ہے "أَرْغَمَتِ الْمَعَاتِسُ" یعنی دشمن مغلوب ہو گئے۔ عَطَشَ (س) عَطَشًا: پیاسا ہونا۔ إِلَيْهِ: مشتاق ہونا۔ صفت عَطَشَانٌ ج عطاش وعطشى وعطاشى۔ مؤنث عطشى وعطشانة ج عطاش۔ أَعَطَشَهُ وَعَطَشُهُ: پیاسا کرنا۔ أَعَطَشَ الرَّجُلُ: پیاسے جالور والا ہونا۔ عَاطَشْتُهُ فَعَطَشْتُهُ: پیاس لگنے میں غلبہ کرنا اور غالب ہونا۔ صفت مفعول معطوش۔ تَعَطَّشَ: پیاسا ہونا۔ العطش والمعطش: پیاسا۔ مؤنث عَطَشَةٌ عَطَشَةٌ۔ العطاش: بیماری کا نام جس میں یہ رانی نہیں ہوتی۔ المعطش: پیاس کا وقت ج معاطش۔ المعطشة: زمین جس میں پانی نہ ہو ج معاطش۔ المعطاش: بہت پیاسا نہ کرو مؤنث) عَطَطَ: القَوْمُ عَطَطَ: لڑائی وغیرہ میں جج یکار ہونا۔ عَطَطَ الْكَلَامَ: کلام میں خلط ط کرنا۔ عَطَفَ (ض) عَطْفًا وَعَطْفًا: لَئِيْبًا: ناکل ہونا عَلَيْهِ: مہربانی کرنا عَنَهُ: بھرجانا عَنِ الْأَمْرِ: ہٹا دینا۔ عَطَفَ الْعَيْتَانُ: لگام بھیرنا عَطْفًا عَلَى الْأَخِي: حُزْبٌ عطف سے ایک کلمہ کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا الْوَسَادَةُ: نکیہ کو ڈوہرا کرنا الشَّقُّ: جھگانا۔ مَوْزَانٌ: عَطَفَتِ النَّاقَةُ عَلَى وَلَدِهَا:</p>	<p>الْأَرْضِي: بچاڑنا اور غالب ہونا۔ إِعْطَى الْعَوْدُ: کلاڑی کا مزنا (ع و تعظف) الْقَوْبُ: کپڑے کا پھنا۔ العطاط: بڑا بہادر۔ شیر۔ الأعظ: لمبا۔ عَطَبَ (س) عَطَبًا: عَطَبٌ: ہلاک ہونا القَرْشُ وَنَحْوُهُ: گھوڑے کا ٹھکانا۔ عَطَبَ عَلَيْهِ: سخت غضبناک ہونا۔ إِعْطَبَ التَّارَ: آگ کو جھینڈنے میں لینا۔ عَطَبَ (ن) عَطَبًا وَعَطْوَانًا: القَطْلُ رُوِيَّ كَا نرم ہونا۔ ملامت ہونا۔ عَطَبَ: الشَّرَابُ: خوشبو دار کرنے کی تدبیر کرنا عَطَبٌ: الكَرْمُ: خوشہ انگور کی گریں ظاہر ہونا۔ أَعَطَبَهُ: ہلاک کرنا۔ العطب والعطب: روئی۔ العطبة: روئی کا ایک کلاڑ۔ جھینڈا جس میں آگ لگائی جائے۔ کہا جاتا ہے "أَجْدَرُ نَيْحَ عَطْبَةٍ" جلی ہوئی روئی یا جھینڈے کی بو محسوس کرتا ہوں۔ المُعْطِبُ: فقیر۔ المعطب: ہلاکت کی جگہ ج معاطب۔ العطبل والمطبل والمطبوذة: العطبول: جوان خوبصورت دراز گردن عورت۔ ج عطابیل وعطابيل۔ المطبل والمطبول: دراز گردن ہوتی۔ عَطِرَ (س) عَطْرًا: خوشبو دار ہونا۔ صفت عَطِرٌ۔ عَطْرَةٌ: خوشبو دار کرنا۔ تَعَطَّرَ وَاسْتَعَطَّرَ: خوشبو دار ہونا۔ تَعَطَّرَتِ الْبَيْتُ: بھیر نکاح کے والدین کے پاس رہنا۔ العطر: خوشبو۔ ایک قسم کی نباتات۔ ج عَطْوَرٌ۔ العاطر: عطر کو پسند کرنے والا۔ عطر زیادہ لگانے والا۔ ج عَطْرٌ۔ العطار: بہت خوشبو والا۔ عطر فروش۔ پیشہ کو (العطارة) کہتے ہیں۔ المعطار والمعطير: بہت خوشبو والا۔ (نہ کرو مؤنث) عَطَارِدٌ: بدھ ستارہ اور اس کو فارسی میں دھیر</p>	<p>العضلة: مصیبت۔ ج غُضُلٌ وَعُضُلٌ۔ المُضَالُ: سخت۔ ذَا عَضَالٍ: عاجز کر دینے والا مرض۔ المُضِلُّ: نا۔ بہت بُرَا۔ ذَا مُضِلٍّ: تھکا دینے والا یا اطلاع مرض۔ المُضِضَةُ: مؤنث مُضِضٌ: بچیرہ مشکل مسکح مُضِضَاتٌ۔ الْمُضِضَاتُ: سختیاں۔ المُضِضَةُ وَالْمُضِضَةُ: بچیرہ مشکل معاملہ۔ العَضْمُ: کمان کا تہج عَضَامٌ۔ گیہوں صاف کرنے کا شاخ دار آرج عَضْمٌ وَأَعْضَمَةٌ۔ عَضَةٌ (ف) عَضُّهَا وَعَضُّهَا وَعَضُّهَا وَعَضِيضَةٌ: جھوت ہونا۔ چٹل خوری کرنا۔ جادو کرنا (عَضُّهَا) التَّيْجِيُّ: بول کر درخت کھانا الرَّجُلُ: صرغ گالی دینا۔ بہتان لگانا۔ عَضَةٌ (س) عَضُّهَا وَأَعْضَةٌ: بہتان لگانا۔ جھوت ہونا۔ العاضه: نا۔ جادو گر۔ حَيَّةٌ عَاضَةٌ وَعَاضِيَةٌ۔ سانپ جس کا سہا ہوا فوراً مر جائے ج عَوَاضَةٌ۔ العوضة: جھوت۔ جادو۔ ج عَضْوَانٌ۔ العوضاء: ہر بڑا کانٹے دار درخت۔ واحد عوضائه وعوضته: کہا جاتا ہے فُلَانٌ يَنْتَجِبُ عُتْرَ عِضَائِهِ: جبکہ دوسرے کے شعر کو اپنی جانب منسوب کرے۔ العِضَائِيُّ وَالْعِضْوِيُّ وَالْعِضْوِيُّ مِنَ الْإِبِلِ: کانٹے دار درخت کھانے والا۔ اَوْتٌ۔ مَكَانٌ عِضْوِيٌّ: بہت کانٹے دار درختوں والی جگہ۔ العاضية: مؤنث عاضه۔ جھوت۔ بہتان ج عَوَاضَةٌ۔ عَضًا يَعْضُو عَضْوًا وَعَضَى تَعْضِيَةً الشَّقُّ: حترق کرنا الشَّاةُ: جدا جدا کرنا۔ عَضَى الْقَوْمَ: مہربانا۔ العَضْوُ وَالْعِضْوُ: بدن کا حصہ۔ عضو۔ کسی جماعت یا کمیٹی کا ممبر ج اَعْضَاءٌ۔ العضة: فرد۔ کلاڑ۔ جھوت۔ ج عَضْوَانٌ۔ رَجُلٌ عَاضٌ: مرد خوش پیش۔ مرد الخلال۔ عَطَّ (ن) عَطًا وَعَطَطًا: عَطَطَ الْقَوْبُ: کپڑا پھاڑنا۔ صفت مفعول عَطِيطٌ۔ عَطَّ الرَّجُلُ أَلَى</p>
--	--	--

عطف

اُونٹنی کا اپنے بچے پر شفیق ہونا اور اس کا دودھ برتا۔ عَطْفَ اللّٰهَ قَلْبَهُ وِیَقْلِبُهُ: دل کو مہربان کر دیتا۔

عَطْفَ (س) عَطْفًا: سچی ہلکوں والا ہونا۔

عَطْفَ الوِسَادَةِ: کچیے کو دوہرا کرنا۔ النَّاقَةَ عَلٰی وِلْدَهَا: مہربان کرنا۔ الشَّيْءَ: جھکا۔

تَعَطَّفَ: جھکا اور مائل ہونا۔ عَلِيًّا:

رحم دل ہونا اور احسان کرنا۔ القُوْبُ وِبِالنُّوْبُ: کپڑا اوڑھ لیتا۔

اِعْتَضَفَ: القُوْبُ وِبِالنُّوْبُ: کپڑا اوڑھ لیتا۔

اِنْعَضَفَ: مڑتا۔

تَعَاظَفَ: القُوْمُ: بعض کا بعض پر مہربانی کرنا۔

فِي مَشِيئِهِ: ناز سے سر ہلاتے ہوئے چلتا۔

اِسْتَعَطَفَهُ: مہربانی طلب کرنا۔ رحم چاہنا۔

العطف: کچی، جھکاؤ۔

العطف: لعل۔ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا

کنارہ۔ عَطْفَ القُوْسِ: کمان کا گوشہ۔ عطفًا

الزَّجْلِ: مرد کے دونوں پہلو ج اَعْتَظَفَ

وَعَطْفًا وَعَطْفًا: کہا جاتا ہے "فَتَى عَطْفِي

عَطْفُهُ" یعنی مجھ سے اعراض کیا اور زیادتی کی

"هُوَ يَنْظُرُ فِي عَطْفِيهِ" یعنی وہ تکبر ہے

"مَرْثَايِي عَطْفِي" یعنی وہ تکبر سے چلا۔

العطفة: گور کی تیل کے لٹکے ہوئے حصے۔

العطف: ہلکوں کی درازی۔ درخت پر اپنے

والی تیل۔ مشق بیجان۔ واحد عَطْفَةٌ۔

العطاف: چادر۔ ازار۔ کوار۔ ج عطف

وَأَعِظَةٌ۔

العاطف: نا۔ ازار۔ گھوڑو ڈکا چھٹا گھوڑو۔ ج

عَطْفٌ وَعَطْفَةٌ۔ والعاطف عند النجاة:

حرف عطف جیسے او۔ فَا۔ ثُمَّ۔ حَتَّىٰ وغیرہ۔

العاطفة: مؤنث عاطف۔ شقت۔ ج

عَاطِفَاتٌ وَعَوَاطِفُ۔

العَوَاطِفُ: مِنَ النِّسَاءِ: نازک فرماجو اور

عورت۔

العطفية: کمان۔ ج عَطَائِفُ

التَّطَوُّفُ: مہربان حسن اِمْرَأَةٌ عَطُوفٌ شوہر

اور بیٹوں سے محبت کرنے والی عورت ج عَطْفٌ

عطل

(عطل و العاطوف) پھندا جس میں ٹیڑھے

سرے کی لکڑی لگی ہو ج عَوَاطِيفُ۔

قَوْسٌ عَطْفِيٌّ: ٹیڑھی کمان۔

الجعطف: چادر۔ کوار۔ ج معاطف۔

مُنْعَطِفٌ الوَادِي وَمُنْعَطِفَةٌ: وادی کا موڑ۔

المعطف: گلاب معاطف۔

عَطْلٌ (س) عَطْلًا الزَّجْلُ مِنَ التَّمَالِي او

الآدَبِ وَكَذَا القُوْسُ مِنَ الزَّوْرِ وَالقَوْسُ مِنَ

الزَّنَنِ: خالی ہونا۔ صفت عَاطِلٌ وَعَطْلٌ

وَعَطْلٌ: ج اَعْطَالٌ۔

عَطَلْتُ (س) وَعَطَلْتُ (ن) عَطْلًا وَعَطْلًا۔

الْمَرْأَةُ: عورت کا بے زیور ہونا۔ صفت عَاطِلٌ و

عَاطِلَةٌ وَعَطْلٌ ج عَاطِلَاتٌ وَعَوَاطِلٌ وَعَطْلٌ

وَأَعْطَالٌ۔

عَطَلْتُ (ن) عَطْلًا: الأَجْيِزُ: مزور یا کھار ہونا۔

عَطَلْتُ: الشَّيْءُ: بے کار چھوڑ دینا۔

الْمَرْأَةُ: زبور ا تَارِيْنَا القُوْسُ: کمان سے

تانت نکال لینا۔ عَطَلْتُ الإِبِلَ: بھیر جے کے

ہونا۔ عَطَلْتُ الإِبِلَ: بھیر جے کے چھوڑ دینا

البَيْتُ: کونٹیں پر جانا چھوڑ دینا۔ ہر وہ چیز جس کو شائع

ذائع کر کے چھوڑ دیا جائے اس پر تعطیل کا اطلاق

ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "عَطَلْتُ الحُدُوْدُ او

الشُّغُوْرُ" یعنی سرحدیں بلا محاذ کے چھوڑ دی

گئیں۔ و "عَطَلْتُ المَزَارِعَ": یعنی کھیتیں جوئی

ہوئی نہیں گئیں۔ "عَطَلْتُ الزَّعِيْعَةَ" رعیت غیر

والی کے رہی ایسی قوم کو "مَعْقِلُوْنَ" کہیں گے۔

تَعَطَّلَ: بیکار ہونا۔ تَعَطَّلْتُ وَاِسْتَعَطَّلْتُ

الْمَرْأَةُ: عورت کا بے زیور ہونا۔

العطل: گلاب۔ محض۔ کہا جاتا ہے "مَا أَحْسَنَ

عَطْلَهُ" یعنی اس کا قدر کتنا چھٹا ہے۔

العطلة: بیکاری۔

العطيل والعيتيل: زکھور کے خوشے کا حصہ۔

العَيْطَلُ: خواہ صورت دراز گردن۔

العَطْلَاءُ مِنَ النِّسَاءِ: بے زیور عورت۔

المِغْطَالُ مِنَ النِّسَاءِ: بے زیور رہنے کی

عادی۔

التعطيل: بیکار رہنا۔ مَذْهَبُ التَّعْطِيلِ:

صفت باری تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کا مذہب۔

عطو

۵۳۶

المُعْطَلَةُ: مذہب تعطیل والے۔

اِعْتَضَمَ: الزَّجْلُ: ہلاک ہونا۔ صفت عَاطِمٌ و

عَطِيْمٌ ج عَطْمٌ۔

العظم: دھکی ہوئی اون۔

عَطَنَ (ن) عَطْنًا الجِلْدُ: کھال کو گوبر یا

تھک میں ڈالنا۔ صفت مِعْوَلٌ عَطِيْمٌ وَمُعْطُوْنٌ

عَطْنًا مَوْنُثٌ عَاطِنَةٌ ج عَاطِنَاتٌ وَعَوَاطِنٌ و

عَطُوْنٌ۔

عَطِنَ (س) عَطْنًا: الجِلْدُ: کھال کا تھک یا

گوبر میں مڑنا۔ صفت عَطِيْنٌ۔

عَطْنُ الجِلْدُ: کھال کو تھک یا گوبر میں ڈالنا

وَأَعْطَنَ: الإِبِلَ: دوبارہ پالی پلانے کے

لئے آرام دینا۔ عَطْنُ للإِبِلِ: اونٹ کے لیے

بیٹھنے کی جگہ بنانا۔ عَطْنَتِ الإِبِلِ: اونٹ کا

سیراب ہو کر بیٹھنا۔

إِلْعَظَنُ الجِلْدُ: کھال کا تھک یا گوبر میں مڑنا۔

العطن والمعطين والمعتنن: اونٹ کے

بیٹھنے کی جگہ۔ حوض کے ارد گرد بکریوں کے بیٹھنے

کی جگہ۔ ج معاطن۔

العطان: گوبر یا تھک جس میں کھال کو ڈالا

جائے تاکہ بال الگ ہو جائیں۔

زَجْلٌ عَطِيْنٌ وَعَطِيْنَةٌ: بدبودار مرد۔

عَطَا يَعْطُوْ عَطْوًا: الشَّيْءَ وَاِلَيْهِ: لیتا ایلہ

بندہ۔ بلند کرنا۔

عَطَى تَعَطِيَةَ الزَّجْلِ: جلدی کرنا۔ خدمت

کرنا۔

أَعْطَى إِعْطَاءً: ه الشَّيْءَ: دینا۔ أَعْطَى التَّجِيْرَ

أَوْ أَعْطَى التَّجِيْرَ بِيَدِهِ: مطح ہونا۔

عَاطَى مُعَاطَةً وَعِطَاءَ الزَّجْلِ الشَّيْءَ: دینا

ہ: خدمت کرنا۔

تَعَاظَى تَعَاظِيًا: الشَّيْءَ: لینا۔

الْأَمْرُ: مشغول ہو جانا۔ الزَّجْلُ: کسی چیز

کو پکڑنے کے لیے پیر کی اگلیوں پر کھڑا ہونا۔ کہا

جاتا ہے "تَعَاظِيْنَا أَعْطُوْنَا" دارود پیش میں ایک

نے دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا چاہا میں غالب

ہو گیا۔

تَعَطَّى تَعَطَّى. جلدی کرنا _____ الأمر مشغول ہو جانا۔
 تَعَطَّى واستعطى استعظاء۔ عطیہ مانگنا۔
 العظا والعطاء۔ جو چیز دی جائے۔ ج اعطیة
 ج اعطیات۔
 العظیة۔ بمعنی عجاج عظاما و عظیات۔
 العطاءة والعطاوة۔ بمعنی عطا۔
 البعطاء۔ بہت زیادہ دینے والا (مذکر مؤنث)
 ج معطایلو معطای۔
 عَطَلَهُ (ن) عَطَّ بِالْأَرْضِ: چپکا دینا۔ عَطَّنَهُ
 الحزب: تکلیف پہنچانا۔
 عَاظَهُ مَعَاظَةً وَعِظَافًا: سختی کرنا۔ تکلیف
 پہنچانا۔ عَاظَ الْقَوْمَ: جنگ میں ایک دوسرے پر
 سختی کرنا۔
 العظلة۔ جنگ میں سختی۔
 عَطَبَ (ض) عَطَّبَ الظَّالِمَ: پرندے کا ذمہ کی
 جڑ کو جلدی جلدی بلانا۔
 عَطَبَ (ن) (ض) عَطَّبَاو عَطَّبُوا جِلْدَهُ: کھال
 خشک ہونا _____ يَذُّهُ: کام کرنے سے ہاتھ کاموٹا
 ہونا۔
 عَطَبَ (س) عَطَّبَا عَلَى الْعَمَلِ: ممبر سے
 برواشت کرنا۔ موٹا ہونا۔ صفت عَطَّبُوب۔
 عَطَّبَهُ عَنْ بَغْيَتِهِ: ٹالنا۔ تاخیر کرنا _____ ه
 عَلَى الشَّيْءِ: عادی اور صابربانا۔
 العاطب والعطب: جنگل اور خشک مقامات
 میں اترنے والا۔
 عَطِيبٌ: الخلق: بدخلق۔
 عَطِيزٌ (س) عَطَّوْا: الإِنَاءُ: برتن کو بھرنا۔
 أَحْطَرَهُ الشَّرَابُ: معدہ میں ٹھیک ہونا اور
 ام اس سے (العطازة) ہے۔
 العَطْوَرُ: شراب سے حکم میں عَطَّرَ۔
 العطار: شراب کی رچ سے احتلاء۔
 عَطَّعَ السَّهْمَ: تیر کا کاٹنا ہوا ٹیڑھا جانا
 _____ الجبان: بزدل کا لڑائی میں پیٹھ پھیرنا
 _____ فِي الْجَبَلِ: پہاڑ پر چرنا۔
 عَطَّلَ (ن) وَعَطَّلَ (س) عَطَّلَاو تَعَاظَلَا وَ
 عَطَّلَ وَاعْتَظَّلَ الْكِلَابُ وَالْجِزَادُ: کتے کا یا
 ڈیوں کا ایک دوسرے پر سوار ہونا۔

عَاظَلَ الشَّيْءَ: سوار ہونا _____ الْكَلَامَ:
 کلام میں معتمد لانا اور کمر کرنا _____ الشَّاعِرُ
 فِي الْقَافِيَةِ: تعین کرنا بالکلام: اپنے ہی اوپر
 لوٹ کر آنے والی بات کہنا۔
 عَقَّلَ وَتَعَقَّلَ: التَّوَمُّ عَلَيْهِ: مارنے کے لیے
 ہجوم کرنا۔ تَعَقَّلَ لِنِ آتْرِهِ: تلاش کرنا۔
 العاطلُ والعاطلةُ والعظليُّ مِنَ الْجِزَادِ:
 ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی ڈی۔
 تَعَطَّلَمَ اللَّيْلُ: سخت تاریک ہونا۔
 العظلمة۔ تاریک۔
 عَظْمٌ (ك) عِظْمًا وَعِظَامَةٌ: براہونہ۔ صفت
 عَظِيمٌ ج عِظْمًا وَعِظَامٌ وَعِظْمٌ _____ الْأُمُ
 عَلَيْهِ: دُشوار ہونا اور باعث مشقت ہونا۔
 عَظْمٌ (ن) عِظْمًا: الْكَلْبُ: کتے کو بڑی کھانا
 _____ عِظْمَةٌ: الرَّجُلُ: بڑی پر مارنا۔
 أَعْظَمَ الْأُمُ: بڑا ہونا _____ الشَّيْءِ: بڑا کرنا۔
 بڑا سمجھنا۔ اعظم الْكَلْبُ عِظْمًا: کتے کو بڑی
 کھانا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَعْظِمُنِي أَنْ أَعْلَلَ كَذَا"
 مجھ کو ایسا کرنے سے کوئی چیز بول میں ڈالنے والی
 نہیں۔
 عِظْمَةٌ: تعظیم کرنا۔ تو تیر کرنا۔ عِظْمُ الشَّاةِ:
 بڑی بڑی کاٹنا۔
 تَعَظَّمَ: تکبر کرنا۔
 تَعَاظَمَ: تکبر کرنا۔ تَعَاظَمَ الْأُمُ: بڑا ہونا۔ کہا
 جاتا ہے "أَمْرٌ لَا يَتَعَاظَمُ شَيْءٌ" وہ ایسا امر ہے
 جس سے کوئی اس کے لحاظ سے بڑا نہیں۔
 اِسْتَعَظَمَ: تکبر کرنا _____ الْأُمُ: بڑا سمجھنا۔
 انکار کرنا _____ الشَّيْءِ: براہتہ لے لینا۔
 العَظْمُ: بڑی ج اعظم وعظام وعِظَامَةٌ۔
 عَظْمُ الشَّيْءِ وَ عِظْمُهُ: چیز کا بڑا حصہ۔ ج
 أعظام۔
 العِظْمُ والعِظْمُ والعِظْمُ: بڑائی۔
 عَظْمُ الظَّرِيقِ: راستہ کار میان۔
 العظامُ والعظامُ: بڑا۔ مؤنث عِظَامَةٌ وَ
 عِظَامَةٌ۔
 العِظْمَةُ: بڑی کا ٹکڑا۔
 العِظْمَةُ مِنَ السَّاعِدِ وَالْيَسَانِ: کلائی یا زبان
 کا موٹا حصہ ج عِظْمَاتُ الْقَوْمِ

سرداران قوم (_____) وَالْعِظْمُوتُ
 وَالْعِظَامَةُ: تکبر۔ ثَمْتُ: فخر۔
 العِظَامَةُ وَالْعِظَامَةُ وَالْعِظَامَةُ: الإِعْظَامَةُ۔
 گردی جس کو عورتیں سرین پر بڑا ظاہر ہونے
 کیلئے باندھتی ہیں۔
 العِظِيمَةُ: مؤنث عِظِيمٌ: سخت مصیبت۔ ج
 عِظَائِمُ: عِظَائِمُ اللَّهِ: اللہ کے بڑے بڑے
 امور۔
 العِظِيمِيُّ: سفیدی مائل کپڑا۔
 مُعْظَمُ الشَّيْءِ: چیز کا بڑا حصہ ج معظام۔ کہا
 جاتا ہے "إِنَّ لِفُلَانٍ مَعَاظِمٌ وَاجِبَةَ الْمُرَاعَاةِ"
 فلاں کے لیے بڑے بڑے حقوق ہیں جن کی
 رعایت واجب ہے۔
 الْمُعْظَمَةُ: سخت مصیبت۔
 عِظَا يُعْظَرُ عِظْوًا: فُلَانًا: غمگین کرنا۔ غیبت
 کرنا۔ بھلائی سے روکنا۔ زہر بلانا۔
 عِظِي يُعْظِي عِظِيًا: فُلَانًا: غمگین کرنا۔
 العِظَايَةُ والعِظَايَةُ والعِظَايَةُ وَالعِظَاةُ۔
 چھگیل کے مشابہ ایک جانور ج عِظَاةٌ وَعِظَاةٌ
 وَعِظَايَاتٌ وَعِظَايَا۔
 عِظْفٌ (ض) عِظْفًا وَعِظْفًا وَعِظْفًا وَ
 تَعَفَّفَ: حرام یا غیر مستحسن سے روکنا۔ پاک دامن
 ہونا۔ صفت مُدْرَعٌ عَفِيفٌ وَعِظْفٌ جِ اعْفَافَةٌ
 وَأَعْفَافَةٌ وَعِظْفُونٌ: صفت مؤنث عَفِيفَةٌ وَعِظْفَةٌ
 ج عَفِيفَاتٌ وَعِظْفَاتٌ وَعِظْفَاتٌ عِظْفٌ عَنْ
 كَذَا: باز رہنا۔ تَعَفَّفَ: بخلگ پاک دامن بننا۔
 تهن کے بقیہ دودھ کو پینا۔
 أَعْفَى اللَّهُ فُلَانًا: پاک دامن کرنا۔
 تَعَاَفَ النَّاقَةُ: اونٹنی کو دوسری مرتبہ دودھنا
 _____ التَّوْبَةُ: علاج کرنا۔
 اِعْتَفَى وَاسْتَعْفَى عَنِ الْغَيْبِ: رُكْنَا
 _____ التَّجَوُّزُ الْيَبِيْشُ: اونٹ کا مٹی کے اوپر
 اوپر خشک گھاس چرنا۔
 العِظْفَةُ: سہ۔ پارسانی۔ پاک دامن۔ طمارت بدن۔
 العِظْفَةُ والعِظْفَةُ: تهن میں بقیہ دودھ اور اسی
 سے ہے سائلہ فما أَحْطَاةُ الْأَعْفَافَةِ عِن تَمُوْرًا
 سہاویا۔ العِظْفُ: ذوا۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ عَلَى
 عِظَانِ ذَلِكَ" یعنی وہ فلاں وقت میں آیا۔

عَفَّتْ (ض) عَفَّتَا الشَّيْءَ: موڑنا اور توڑنا۔
كَلَامَهُ وَفِي كَلَامِهِ: لکنت کی وجہ سے
بولنے میں نہ ٹیڑھا کرنا۔ صفت عَفَات۔
العَفْت: لکنت۔

الْأَعْفَت: بایں ہاتھ سے کام کرنے والا
بیوقوف۔

عَفَّجَهُ (ض) عَفَّجَابَا الْعَصَا: بلا ٹیڑھی مارنا۔
العَفَّجُ وَالْمَفَّجُ وَالْمَفَّجُ وَالْمَفَّجُ آتَتْ ج
اغْفَاجٌ وَعَفَّجَةٌ۔
المَفَّجُ: بیوقوف۔

المَفَّجَةُ وَالْمَفَّجُ: لا ٹیڑھی۔ کپڑے
دھونے کی موگری۔ اور عوام (مخضبات) کہتے
ہیں۔

عَفَّدَ (ض) عَفَّدَا وَعَفَّدَاتَا: دونوں ٹانگیں ملا
کر کوٹنا۔

إِعْتَفَدَ: بھوک کی وجہ سے مرنے کے لیے
دروازہ بند کرنا اور سوال نہ کرنا۔

عَفَّرَهُ (ض) عَفَّرَا لِي الثَّرَابِ: مٹی میں
تھپیرنا۔ زمین میں دھنسا دینا۔ الشَّيْءُ: زمین
پر پھینک دینا۔

عَفَّرَ (س) عَفَّرَا وَإِسْتَفَّرَ: خاکستری رنگ
ہونا۔ خاک آلود ہونا۔ صفت أَعْفَرُ۔

عَفَّرَهُ فِي الثَّرَابِ: مٹی میں تھپیرنا۔ زمین میں
دھنسا دینا۔ جو شخص ذلیل کیا گیا ہو اس کیلئے "قَدْ
عَفَّرُوا وَأُزِّمُوا" بولا جاتا ہے "عَفَّرَ الْمَخْمُ"
دھوپلا میں ریت پر خشک کرنا۔ الشَّيْءُ:
سفید کرنا۔ عَفَّرَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْعِظَامِ: عورت
کا دودھ چھڑانے کے لیے پستان پر مٹی لگانا۔

إِعْتَفَرَ: الشَّيْءُ: خاک آلود ہونا۔

الْقَوْبُ فِي الثَّرَابِ: کپڑے کو مٹی میں تھپیرنا
فُلَانٌ قَادِرٌ: قادر ہونا۔ قَوِيٌّ هُوَ: قوی ہونا۔

الزَّجَلُ: زمین پر پھینک دینا۔ کورانا۔ ہ
الْأَسَدُ: شیر کا پھانڑنا۔

تَعَاَفَرَ: الشَّرِيذُ: شریذ کا سفید ہونا۔

تَعَفَّرَا وَإِعْفَرَا فِي الثَّرَابِ: مٹی میں لوٹ
پوٹ لگانا۔ الشَّيْءُ: خاک آلود ہونا۔ تَعَفَّرَ
الْوَحْشُ: وحشی جانور کا موٹا ہونا۔

العَفْرُ وَالْعَفْرُ: مٹی۔ خاک۔ ج. أَعْفَارُ۔

العَفْرُ وَالْعَفْرُ: زسور یا مطلقاً سور۔ بہار۔ سخت
موٹا۔ العَفْرُ: بعد۔ بے رونق بازار۔ مینے کی
ساتویں، آٹھویں، نویں رات۔ مرد لیر و چالاک۔
موٹا۔ ج. أَعْفَارٌ وَعَفَارٌ۔

زَجَلٌ عَفْرٌ وَعَفْرٌ وَعَفْرٌ وَعَفْرٌ: عَفْرَانِيَّةٌ۔ عَفْرِيَّةٌ۔ عَفْرِيَّةٌ۔
مرد۔

الْأَعْفَرُ: ہرن کی ایک قسم جو کم دوڑتا ہے۔
العَفْرَةُ: خاکستری رنگ۔

العَفْرَةُ وَالْعَفْرَةُ مِنَ الدِّيَكِ: مرغ کے گردن
کے بال۔ مِنَ الْإِنْسَانِ: وسط سر کے بال۔

مِنَ الْأَسَدِ: شیر کے بال۔ عَفْرَةُ الْحَيَّةِ:
گری کی شدت۔

العَفْرُ: زمانہ۔ وقت۔ مینہ۔
العَفْرَةُ: مملوٹ لوگ۔ عَفْرَةٌ وَ عَفْرَةُ الْحَيَّةِ
الزُّبْدِ: گری یا سردی کی شدت۔

العَفَارُ: بغیر شکر وغیرہ کا ستو۔ درخت جس سے
آگ نکالنے کا کام لیا جاتا ہے واحد عَفَارَةٌ۔

العَفَارَةُ: خباث۔ بڑائی۔
العَفْرِيَّةُ: بوا سخت مکار۔ عَفْرِيَّةٌ۔

العَفْرِيَّةُ وَالْعَفْرَةُ مِنَ الدِّيَكِ وَالْإِنْسَانِ: بمعنی
عَفْرَةٌ۔ جب کوئی غنیمت ہو کر آئے تو کہا کرتے
ہیں۔ "جَاءَ نَالِ الشَّاعِرِ بِتَهْ"۔

العَفْرِيَّةُ: گوشت جو دھوپ میں ریت پر خشک کیا
جائے۔ عَفْرِيَّةٌ عَفْرِيَّةٌ: بلا سان کے روٹی (۔
وَالْمَعْفَرُونَ مٹی میں تھپیرنا ہوا۔ العَفْرِيَّةُ: وہ
عورت جو بڑوں کو بدیہ نہ سمجھتی ہو۔

العَفْرِيَّةُ: گھریلا کی گولی۔
العَفَارُ: موٹن کھجور میں مذکر کھجور کا پھول
ڈالنے والا۔

العَفْرَاءُ: الْأَعْفَرُ کا موٹن ج. عَفْرُ: سفید زمین
مِنَ لَيْلَى الْقَمَرِ: تیرھویں رات۔

العَفْرِيَّةُ: مرد قوی کال۔ جالاک اور کاموں کو
کر ڈالنے والا۔ لَيْتُ عَفْرِيَّةً: شیر۔ عَفْرِيَّةً: نام
شیر کی جھاڑی کا۔

المُعَاَفِرُ: ساتھیوں کے ساتھ چلنے والا تاکہ ان
کے پیچھے ہونے سے کچھ حاصل کر لے۔

تَعَفَّرْتُ: دیو ہونا۔ شریر ہونا۔
العَفْرِيَّةُ: سخت عَفْرِيَّةٌ۔ جالاک اور کاموں کو

کر ڈالنے والا۔ اور یہ انسان، چنات، شیاطین
سب میں سے ہوتا ہے۔ ج. عَفْرَانِيَّةٌ مَوْتٌ
عَفْرِيَّةٌ۔

عَفْرَسَهُ: پچھاڑنا اور غالب ہونا۔
العَفْرَسُ وَالْعَفْرَسُ وَالْعَفْرَسُ
وَالْعَفْرَسُ وَالْعَفْرَسُ: شیر۔

العَفْرَانِيَّةُ: شتر مرغ۔
عَفْرٌ (ض) عَفْرًا: أَهْلُهُ: اپنی بیوی سے کھیل
کو دیکھنا۔ الخَمَانُ بَعِيْزُهُ: ساریاں کا
اُونٹ کو ٹھکانا۔

العَفْرُ: مٹ۔ وَالْعَفْرَاءُ: کھلیا ہوا
آخروٹ۔

العَفْرَاءَةُ: ٹیلہ۔
عَفْرَسَهُ (ض) عَفْرَسَا: پچھاڑنا اور روندنا۔ قید
کرنا۔ عَنِ حَاجَبِهِ: حاجت سے باز رکھنا
روکنا۔ العَفْرِيَّةُ: جالور کو بغیر چارے کے
رکھنا۔ هُ: زمین پر چھانڑنا۔ سختی سے زمین پر
کھینچنا۔ هُ بِرَجْلِهِ: جو تیر پلات مارنا۔
عَافَسَهُ: کشتی کرنا۔ مزاولت کرنا۔ کہا جاتا ہے
"بَاتَ يَعْافِسُ الْأُمُورَ"۔

تَعَاَفَسَ: واعْتَفَسَ الْقَوْمُ: آپس میں کشتی
کرنا۔

إِنْعَفَسَ فِي الثَّرَابِ: خاک آلود ہونا۔ فی
الْبِيَاءِ: پانی میں غوطہ لگانا۔

العَفَافُ: نسا۔
العَفْفُوسُ: قیدی۔

عَفَّشَ (ض) عَفَّشَا الشَّيْءَ: جمع کرنا۔
العَفَّاشَةُ: بے خور و ریت آدمی۔

الْأَعْفَشُ: کمزور نگاہ والا۔
عَفَّصَهُ (ض) عَفَّصَا: کھینچنا۔ موڑنا۔
الزَّجَلُ: کشتی میں غالب آنا۔ عَفَّصَ حَقَّهُ
وَبُنَّ: حق لینا۔

عَفَّصَ وَأَعْفَصَ الْقَارِوَةَ: شیشی میں گاک
لگانا۔ ذَاتُ لَكَاتٍ: عَفَّصَ الْأَجْرَ: روشنائی میں مازو
ڈالنا۔

عَفَّصَ الثَّرَابَ: کپڑے کو مازو سے رنگنا۔
عَافَصَهُ مُعَافَصَةً: کشتی لڑنا۔
العَفَّصُ: مازو مازو کا درخت۔ بلوط کا درخت۔

عَفَّصَ الثَّرَابَ: کپڑے کو مازو سے رنگنا۔
عَافَصَهُ مُعَافَصَةً: کشتی لڑنا۔
العَفَّصُ: مازو مازو کا درخت۔ بلوط کا درخت۔

عَفَّصَ الثَّرَابَ: کپڑے کو مازو سے رنگنا۔
عَافَصَهُ مُعَافَصَةً: کشتی لڑنا۔
العَفَّصُ: مازو مازو کا درخت۔ بلوط کا درخت۔

عَفَّصَ الثَّرَابَ: کپڑے کو مازو سے رنگنا۔
عَافَصَهُ مُعَافَصَةً: کشتی لڑنا۔
العَفَّصُ: مازو مازو کا درخت۔ بلوط کا درخت۔

عَفَّصَ الثَّرَابَ: کپڑے کو مازو سے رنگنا۔
عَافَصَهُ مُعَافَصَةً: کشتی لڑنا۔
العَفَّصُ: مازو مازو کا درخت۔ بلوط کا درخت۔

عَفَّصَ الثَّرَابَ: کپڑے کو مازو سے رنگنا۔
عَافَصَهُ مُعَافَصَةً: کشتی لڑنا۔
العَفَّصُ: مازو مازو کا درخت۔ بلوط کا درخت۔

عَفَّصَ الثَّرَابَ: کپڑے کو مازو سے رنگنا۔
عَافَصَهُ مُعَافَصَةً: کشتی لڑنا۔
العَفَّصُ: مازو مازو کا درخت۔ بلوط کا درخت۔

العَفَص - تاک کی بجی۔

العَفَص - کیلا۔

العَفُوصَة - کیلا پن۔

العِفَاص - کاک۔ ڈاٹ۔ شیشی کا سر بند۔

عَفِطْتُ (ض) عَفِطًا وَعَفِيطًا وَعَفِطَانًا۔

العَتْرُ: بکری کا رخ خارج کرنا _____ الضَّانُ:

بھیر کا چھینکا _____ (عَفِطًا) الرَّاعِي: بکری کے

گوز کے مانند ہونٹوں سے آواز نکالنا۔

بَغِيضِهِ: بھیر کی چھینک کے مانند آواز سے بھیر

کو ڈانٹنا یا بلانا _____ فَلَانٌ فِي كَلَامِهِ: کنت

کرنا۔

العَاقِطُ (ف) _____ والعَفِيطُ: بست گوز کرنے

والا۔

العَاقِطَة - مؤنث عَاقِطٌ۔ بھیر۔ اور اسی سے

عرب کا قول ہے "مَالَهُ عَاقِطَةٌ وَلَا نَاقِطَةٌ" یعنی

اس کے پاس نہ بھیر ہے نہ بکری۔ مُرَادِيہ ہے کہ

کچھ بھی نہیں۔

الأَعْفَطُ - بیوقوف۔

العَفَاطُ العِفَاطِيُّ والعِفْطِيُّ - جگلا۔ کنت

والا۔

عَفَقَ (ض) عَفَقًا الرَّجُلُ: عَاقِبَ ہونا۔ بلا کسی

ضرورت کے آنا جانا۔ تیز جانا۔ تھوڑا سا سونے کے

بعد جاگنا پھر سونا۔ عَفَقَةً بِالسُّوْطِ: کوڑے سے

بست مارنا _____ ه عَنِ الْأَمْرِ: منع کرنا _____

العَمَلُ: کام کو ادمورا کرنا _____ الشَّيْءُ: جمع

کرنا _____ عَلَيْهِ الصَّنْدُ: کسی کی جانب شکار کو

ہانک کرلانا _____ الرِيحُ الشَّيْءُ: پراگندہ کرنا۔

عَفَقَ الجَمَازُ: گدھے کا گوز کرنا۔

عَفَقَ الغنمِ بعضُها على بعضٍ: بکریوں کو

اکٹھا کرنا۔

عَاقَفَهُ مَعَاقِفَهُ وَعَاقَفَا: فَرِبَ رِيًّا۔ عَاقَفَ

الذَّبَابُ الغنمِ: بھیرے کا بکریوں کے آتے

جائے میں نٹھان کرنا۔

أَعْفَقَ: بلا ضرورت کے اکٹھا کرنا۔

تَعَفَّقَ بِهِ: پتالینا۔

إِعْتَفَقَ القَوْمُ بِالشُّيُوفِ: آپس میں تلوار

بازی کرنا _____ الأَسَدُ لَوَيْسَةَ: شیر کا شکار پر

ماکل ہونا۔

إِنْعَفَقَ: فِي حَاجَتِهِ: جلدی کرنا۔

العَقَاقِفَةُ: دُور۔

رَجُلٌ مِعْقَاقُ الرِّيَازَةِ: بست ملاقات کرنے

والا۔

المُنْعَفِقُ: پانی پر سے واپس ہونے والا۔

عَفَكَ (ض) عَفَكًا الكَلَامَ: سیدھی طرح

سے بات نہ کرنا۔ بیہودہ کلام کرنا۔

عَفَكَ (س) عَفَكًا وَعَفَكًا: سخت بیوقوف

ہونا۔ صفت أَعْفَكَ وَعَفِكَ وَعَفِيكَ مؤنث

عَفَكَاج عَفَكَ۔ الأَعْفَكَ: بامیں ہاتھ سے کام

کرنے والا۔

عَفَنَ (ض) عَفَنًا وَعَفَنَ اللَّحْمُ: گوشت کو

بدبودار کرنا۔ عَفَنَ فِي الجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔

عَفَنَ (س) عَفَنًا وَعَفُونَةً وَتَعَفَنَ الشَّيْءُ:

ترسی کی وجہ سے خراب ہونا _____ اللَّحْمُ:

گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت عَفِنٌ وَعَفُونٌ وَ

مُعَفِنٌ وَمُعَفِنٌ۔

أَعْفَنَ الشَّيْءُ: بدبودار پانا۔

عَفَا يَعْفُو عَفْوًا وَهُ ذَنْبُهُ وَعَفَا عَنْ ذَنْبِهِ:

درگزر کرنا۔ معاف کرنا۔ سزا کو چھوڑ دینا _____

اللَّهُ عَنْهُ: گناہوں کو معاف کرنا _____ عَنِ

الشَّيْءِ: رکنا _____ عَنِ الحَقِّ: ساقط کرنا

_____ الشَّيْءُ: زیادہ کرنا _____ عَلَيْهِ فِي

العَلْمِ: بڑھ جانا _____ الصُّوفُ: اون کاٹنا

_____ فَلَانًا: کسی کے پاس طلب معروض کیلئے

جانا۔ عَفَتِ الأَرْضُ: زمین کا سبزی سے ڈھک جانا

_____ الشَّيْءُ: زیادہ اور لہا ہونا۔ عَفَتِ الرِّيْحُ

الأَثْرَ أَوِ المَنْزِلَ: مٹا دینا (عَفَا عَفْوًا وَعَفَا وَ

عَفَّرَا) الأَثْرَ أَوِ المَنْزِلَ: مٹا _____ أَثْرَ فَلَانٍ:

ہلاک ہونا۔ مٹا۔

عَفَا يَعْفُو عَفْوًا وَعَفَى يَعْفِي عَفِيًّا الشَّيْءُ:

پلوں کو چھوڑ دینا یہاں تک کہ لے اور زیادہ ہو

جائیں۔ عَفَى تَغْفِيَةً بَالٍ كَالسَّبَا أَوْ يَدَا هُوَ:

عَفَتِ الرِّيْحُ المَنْزِلَ: مٹا دینا _____ عَلَى مَا

كَانَ مِنْهُ: بگاڑ کے بعد درست کرنا۔ عَفَتِ العِلَّةُ

صَاحِبَتَهَا: ہلاک کرنا۔

عَافَى مَعَاوَةَ وَعَافَى وَعَافِيَةَ اللَّهِ فَلَانًا:

صحت دینا بلا اور برائی سے بچانا۔

أَعْفَى إِعْفَاءً: اللَّهُ فَلَانًا: عَالِيَةً دِينًا _____

الشَّيْءُ: پلوں کو بڑھنے کیلئے چھوڑ دینا _____

الرَّجُلُ: بست مال دار ہونا۔ زائد مال کو خرچ کرنا

_____ ه مِنَ الْأَمْرِ: بڑی کر دینا _____ زَيْدًا

بِحَقِّهِ: حق کو پورے طریقہ سے ادا کر دینا

_____ الرَّجُلُ: دینا _____ العَرِيضُ: بیمار کا

صحت یاب ہونا۔

تَعَفَى تَعْفِيًا: مٹا اور مضمحل ہونا۔

تَعَفَى تَعَاوُنًا: عَالِيَةً پانا _____ الشَّيْءُ:

چھوڑنا۔

إِعْتَفَى إِعْفَاءً: فَلَانًا: کسی کے پاس طلب

معروف کے لیے آنا۔ إِعْتَفَتْ وَاسْتَعْفَتْ

الإِبِلُ اليبَيْسُ: اُوپر اُوپر سے خشک گھاس کو

چرنا۔ إِسْتَعْفَى الرَّجُلُ مُكَلِّفَهُ: اِسْتَعْفَى رِيًّا۔

معافی طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَعْفَى مِنْ

الْمُخْرُجِ فَاعْتَفَاهُ" یعنی لالان نے نکلنے سے معافی

مانگی اور اس نے معاف کر دیا۔

العَفَاءُ: مٹی۔ بارش۔ گھروں کی برابری۔

ہلاکت۔ آگھ کا چھوٹا۔

العَفَاءُ: زیادہ لے ہال۔ شتر مرغ کے پر۔ اونٹ

کے ہال۔

العَفْوُ: عمدہ چیز۔ فضل و معروف۔

مِنَ العَمَالِ: خرچ سے زائد جس کا بنا دشاوار نہ

ہو۔ زمین جس میں کوئی نشان نہ ہو۔

العَفَاوُ والعَفْوُ والعَفْوُ: گدھے کا پتہ۔

ع عَفَاوُ عَفْوَةٌ۔

العَفْوَةُ: ریت۔ گدھے کا داہ پتہ۔ ع عَفْوُ۔

العَفْوَةُ والعَفْوَةُ والعَفْوَةُ: ہانڈی کا جھاگ۔

عَفْوَةُ الشَّيْءِ: چیز کا خالص۔ عَفْوَةُ الطَّعَامِ

وَ الشَّرَابِ: عمدہ کھانا پانی۔ العَفْوَةُ والعَفْوَةُ مرو

کے سر کے ہال۔

العَفَاوَةُ: شرب کا چھتا حصہ جو کسی معزز کو دیا

جائے۔

العَفَاوَةُ: ویک کا چھتا شرب۔

العَفَاوَةُ والعَفَاوَةُ والعَفَاوَةُ: ہانڈی کا

جھاگ۔

العَفْوُ: معاف کرنے والا۔ بست معاف کرنے

والا۔

العاقی۔ فا۔ بخشے والا۔ ورگر کرنے والا۔ بے بال والا۔ شے والا۔ ج عقیق۔ دیک کا پھلا شوربہ۔ گھاس پائی طلب کرنے والا۔ گھاٹ پر اترنے والا۔ مسمان۔ ہر طالب بخشش و رزق۔ ج عفاة و عقیق و عاقیہ۔ کہا جاتا ہے "مَنْزِلَتْ عَلَی الْکُرْمِ عَاقِیَةٌ" کریم پر بخشش کے طلب کرنے والے بہت ہوتے۔

العاقیۃ۔ عالی کا مصدر یا اسم۔ کامل صحت ہر طالب رزق ج عاقیات و عواقب۔

المُعَقِّی۔ فا۔ ساتھی جو سلوک کا طالب نہ ہو۔

عَقَّ (ن) عَقًّا الْقَوْمَ: کپڑا بھانڑا۔ عَقَّبَ الرَّوْبِعَ الْمُنْرِنَ: بارش برساتا _____ الدَّلْوُ: کنوئیں سے بھرا ہوا ڈول لگانا) _____ عَقَّقُوا وَ مُعَقِّةٌ الْوَلَدُ وَالْیَدُ: والد کی نافرمانی کرنا اور شفقت نہ کرنا اور استغفار کرنا۔ صفت عَقَّ و عَاقَى ج عَقَقْتُ وَ اَعَقْتُ وَ عَقَّقْتُ وَ عَقَّقْتُ: عَقَّ (س) عَقَّقًا۔ بھنڈا۔

عَقَّبْتُ (ض) عَقَّقًا وَ عَقَّقًا وَ عَقَّقًا الْفَرَسَ: گھوڑی کا حاملہ ہونا۔ صفت عَقَّقُوا۔

عَاقَى مُعَاقَلَةً اَبَاهُ: مخالفت کرنا۔

اَعَقَّ الْکُرْمَ: گور کی تیل کی جڑوں سے شلخ لگانا۔ فَلَانَ نَافِرًا: نافرمانی کرنا۔ اَعَقَّتْ الْفَرَسَ: گھوڑی کا حاملہ ہونا۔ صفت عَقَّقُوا۔

الْعَقَى: الوادی: وادی گمری ہونا _____

الغُبَارُ: غبار بلند ہونا _____ العُقْدَةُ: گرہ مضبوط ہونا _____ التَّزْوِیُّ: بجلی کا بادل میں چسپ جانا (_____ وَاغْتَقَّ) بھنڈا۔ اِغْتَقَّ السَّیْفُ: گھوار سونٹا _____ الْمُغْتَقِلُ: حذر بیان کرنے میں مبالغہ کرنا۔

العَاقَى: اسم قائل ج عَاقِلٌ وَ عَقْفَةٌ وَ اَعْقَةٌ مَوْتٌ عَاقِلٌ ج عَوَاقِبُ وَ عَاقَاتٌ۔

العَقَى وَ الْعَقَّةُ: کرا کر اچھا۔

العَقَى وَ الْعَاقَى: مِنَ الْمَاءِ: کڑوا پانی۔

العَقَّةُ: نوزائیدہ بچے کے بال ج عَقَق۔

العَقْوَقُ مِنَ الْعَجَلِ: حاملہ گھوڑی۔ غیر حاملہ گھوڑی ج عَقَقُ ج عَقَاقُ۔

العَقِیقُ: سرخ مرے۔ واحد عَقِیقَةٌ: وادی اور ہریالی بننے کی جگہ جس کو سیلاب نے وسیع کر

دیا ہوج اَعْقَةً: نوزائیدہ بچے کے بال۔ عرب میں چند مقامات کے نام۔

العَقِیقَةُ: نوزائیدہ بچے کے بال۔ توشہ دان۔ شہر۔

بکری جو پیدائش کے ساتویں دن بال موڑنے کے وقت زنج کی جائے۔ حیر جس کو زمانہ جاہلیت میں

سہم الاِعتِدَارِ کہتے تھے۔ اور خون کے بدلے کا فیصلہ کرنے کے لیے آسمان کی طرف بھیجتے تھے۔

اگر خون میں لت پت واپس آتا تھا تو قصاص لیتے تھے اور اگر صاف آتا تھا تو ریت پر مصالحت کر لیتے تھے۔

عَقَانِ الْکُرْمِ او التَّخِیْلِ: شامیں جو گور کی تیل یا درخت خرمائی جڑ سے نکلیں۔

عَقَبَ (ض ن) عَقَبًا: اڑی مارا۔ عَقَبَ الْفَرَسَ او السَّهْمَ: پھا لپٹاتا) _____ عَقَّبَا وَ عَقَّقُوا وَ عَاقِبَةُ الرَّجُلِ او مَكَانَ الرَّجُلِ بَیْطِهِ انا۔ جاٹھیں ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَقَبَ الشَّيْبُ" یعنی سیاہی کے بعد سفیدی آئی۔

عَقَبَ عَقَبًا: اڑی میں ورد ہونا۔

عَقَّبَهُ: بچھے آنا۔ بچھے لانا۔ عَقَّبَ الصَّلَاةَ لِمَا پوری کر لینے کے بعد دعا و نیرہ کیلئے بیٹھنا۔ کہا جاتا ہے "عَقَبَ الشَّيْبُ" یعنی سیاہی کے بعد سفیدی آئی _____ لَی الْأَمْرُ: کسی چیز کے طلب کرنے کے لیے کوشش کرنا اور آمد و رفت رکھنا _____

الْحَاكِمُ عَلَى حُكْمِ سَلَفِهِ: حاکم کا اپنے سلف کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا۔

عَلَيْهِ: ہد نام کرنا اور غلطیوں کو بیان کرنا۔

عَاقِبَةُ مُعَاقَبَةٍ: بچھے آنا۔ عَاقِبَةُ لَی الرَّاحِلَةِ: نوبت۔ نوبت سوار ہونا۔

عَاقِبَةُ عِقَابًا وَ مُعَاقَبَةٌ: بَدَلِيهِ وَ عَلَی ذَلِيهِ۔ مواخذہ کرنا۔ سزا دینا۔ اسم العقوبۃ۔

عَقَّبَهُ: جاٹھیں ہونا۔ اچھا بدلہ دینا۔ عرب کہتے تھے "اَعَقَبْتُ الرَّجُلَ" یعنی بہتر بدلہ دیا اور "مُعَاقَبَتُهُ" یعنی برا بدلہ دیا۔ تمنا ہے اچھے بدلے کو اور عِقَابِ بڑے بدلے کو کہتے ہیں۔ اَعَقَّبَهُ لَی الرَّاحِلَةِ: نوبت۔ نوبت سوار ہونا۔ اَعَقَّبَ فَلَانًا: مرنا اور اولاد چھوڑ جانا _____ الْأَمْرُ: اچھا انجام ہونا _____ الرَّجُلُ: برائی سے بھلائی کی طرف لوٹنا۔ اَعَقَّبْتُ الْأَرْضَ: زمین کا چرے جانے کے

بعد پھر سر سبز ہونا۔ کہا جاتا ہے "اَعَقِبَ عِرْوَةَ ذُلًا" یعنی اس کی عزت ذلت سے بدل گئی۔

تَعَقَّبَهُ: تلاش کرنا۔ تفحص تلاش کرنا۔ پیروی کرنا۔ جرم پر گرفت کرنا۔ تَعَقَّبَ عَنِ الْخَبِيرِ: شک کی وجہ سے خبر کو دوسری مرتبہ پوچھنا۔

تَعَقَّبَ مِنْ أَمْرِهِ: نام ہونا۔

تَعَاقَبَ: الرَّجُلَانِ او اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ: ایک دوسرے کے بچھے ہونا۔ تَعَاقَبَا عَلَی الرَّاحِلَةِ: نوبت۔ نوبت سوار ہونا۔

الْقَوْمُ فِي الشَّيْءِ او الْأَمْرِ: باری باری کرنا۔

تَعَاقَبُوا عَلَی فَلَانٍ بِالضَّرْبِ: کسی کو مارنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

اِغْتَقَبَ الْبَائِعُ السَّلْعَةَ: قیمت پر قبضہ کرنے کے لیے سامان کو روک لینا _____

الرَّجُلُ: قید کرنا _____ مِنَ كَذَا نَدَامَةً انجام میں ندامت اٹھانا _____ الْقَوْمَ عَلَيْهِ: مدد کرنا۔

اسْتَفْقَبَهُ: عیوب و نقائص کو تلاش کرنا۔

العَقَبُ: ہر بچھے آنے والی چیز۔

العَقْبُ وَ الْعَقِبُ: اڑی۔ بیٹا۔ پوتا۔ ج اعقاب۔ اعقاب الأمور: امور کے انجام۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ عَقِبُهُ وَ بَعْقِيهِ" جاٹھیں ہوا "زَجَعَ عَلَي عَقِبِهِ" وہ جلدی سے اسی راستے سے واپس گیا جس سے آیا تھا "وَ طَنِ عَقِبَهُ" وہ اس کے نشان قدم پر چلا "سَافَرَ عَلَي عَقِبِ الشَّهْرِ" اس نے سینے کے آخر میں سفر کیا۔

العَقْبُ وَ الْعَقِبُ: انجام۔ نتیجہ۔ ج اعقاب۔

العَقَبُ: پچھا جس سے تانت بنایا جاتا ہے۔ ج اعقاب۔

العُقْبَةُ: باری۔ بدل۔ تم کہتے ہو "تَمَّتْ عَقْبَتُكَ" تمہاری باری پوری ہو گئی "اَخَذْتُ مِنَ اَسْبِرِي عَقْبَتَهُ" میں نے اپنے قیدی سے بدلہ لے لیا۔ الْعُقْبَةُ مِنَ الْجَمَالِ: حسن کا اثر۔

العُقْبَةُ: کھانے کے بعد جو ٹھنسی چیز کھائی جائے۔

شوربے کا بقیہ حصہ جو ہانڈی والے کو دیا جائے۔

رات دن۔ اس لیے کہ یہ باری باری آتے ہیں۔

کہا جاتا ہے "هُوَ عَقْبَةُ نَبِيِّ فَلَانٍ" وہ نبی فلاں کا

آخری ہے ج عَقَبَ اَبُو عَقْبَةَ: سور۔

پس اور اس کی جمع عو القف ہے۔
العُقَّافہ۔ کلمی جس کے ایک طرف کچی ہو
سُوکَةٌ عَقِيفَةٌ مڑا ہوا کانٹا۔

المَعْقُوف۔ مڑا ہوا۔ وہ جانور جس کو عَقْفَاف
کی بیماری ہو۔ شَيْخٌ مَعْقُوفٌ: خمیدہ کمر ڈھا۔
عَقْلٌ (ن ض) عَقْلًا۔ الدَّوَاءُ بظنہ: دوا کا
قبض کر دینا۔ البَیْعُزُّ: ٹانگ ران ملا کر
رتھی سے باندھنا۔ المَرْؤَةُ شَفْرُهَا بِلَوْنٍ
میں لکھا کرنا۔ القَبِيْلُ: ممتول کی دست ادا
کرنا۔ عَنِ فُلَانٍ: کسی کی جانب سے
تادان یا دست ادا کرنا۔ لَدَهُمْ فُلَانٍ: دست
پر راضی ہو جاننا اور قصاص کو چھوڑ دینا۔

عَقْلٌ (ض) عَقْلًا و مَعْقُولًا الغَلَامُ: لاکا کا
سمجھدار ہونا۔ دانا ہونا۔ فُلَانٌ يَغْدُو الصَّبَا
غلطی کو پہچان لیتا۔ عَقْلًا الشَّيْءُ: سمجھنا۔
تدبر کرنا۔ صفت عَاقِلٌ ج عَاقِلُونَ و عَقْلًا و
عَقَالٌ۔ صفت مَوْنِتٌ عَاقِلَةٌ ج عَاقِلَاتٌ و
عَوَالِلٌ۔

عَقْلٌ (ض) عَقْلًا و عَقُولًا المَصَارِغُ
خصصہ۔ ٹانگ میں ٹانگ پھنسا کر گرانا۔
الْوَعْلُ: بلند پہاڑ پر چڑھ جانا اور محفوظ ہو جانا۔
إِلَيْهِ: پناہ لینا۔

عَقِيلٌ (س) عَقْلًا البَیْعُزُّ: اونٹ کا ٹیڑھی
ٹانگوں والا ہونا۔ صفت أَعْقَلُ مَوْنِتٌ عَقْلًا ج
عَقِلٌ۔

عَقْلٌ الغَلَامُ: لاکے کا عقل مند ہونا۔ الغَلَامُ
لاکے کو عقل مند بنانا۔ البَیْعُزُّ: اونٹ کی
ٹانگ ران ملا کر باندھنا۔ الرَّجُلُ عَنِ
حاجتہ: روک دینا۔

عَاقِلُهُ مَعَاقِلَةٌ: سمجھ بوجھ میں مقابلہ کرنا۔
أَعْقَلُهُ: عقل مند بنانا۔ أَعْقَلُ الرَّجُلُ: سال کی
زکوٰۃ واجب ہونا۔

تَمَقَّلَ الغَلَامُ: لاکے کا سمجھدار ہونا۔ یخلف
عقل مند بنا۔ تَعَقَّلَ: منع کرنا۔ روکنا۔ تَمَقَّلَ
الرَّجُلُ: پاؤں موڑ کر سرین پر رکھنا۔
الرَّجُلُ أَوْ السَّرِجُ: کجاوہ یا زین پر پاؤں موڑ کر
رکھنا۔
تَعَاقَلُوا: یخلف عقل مند بنا۔ تَعَاقَلُوا دَمٌ

القَبِيْلُ: دست کے ادا کرنے میں شریک ہونا۔
أَعْقَلُ الرَّوْحُ: نیزہ کو رکاب اور پٹلی کے
درمیان رکھنا۔ البَیْعُزُّ: اونٹ کی ٹانگ
ران ملا کر باندھنا۔ الرَّجُلُ أَوْ السَّرِجُ:
کجاوہ یا زین پر پاؤں موڑ کر رکھنا۔ مِنْ دَمٍ
فُلَانٍ: دست لینا۔ الدَّوَاءُ بظنہ: دوا کا
قبض کرنا۔ الرَّجُلُ: پاؤں موڑ کر سرین پر رکھنا۔
أَعْقَلَهُ: روکنا۔ ٹانگ میں ٹانگ لگا کر بچاؤ
۔ الشَّاةُ: بکری کی ٹانگ کو اپنی ران اور پٹلی
کے درمیان دیا کر دھنا۔

أَعْقَلُ لِمَسَانَةٍ: زبان بند ہو جانا۔
العَقْلُ: روحانی نور جس سے غیر محسوس چیزوں
کا ادراک ہوتا ہے۔ دل۔ دست ج عَقُولٌ۔
العَقْلِيُّ: عقل کی طرف نسبت۔ جس میں حس
باطنی کو دخل نہ ہو۔

العَقْلَةُ: زبان کی روک۔
العَقْلَةُ: جس سے باندھا جائے ج عَقْلٌ۔
العَقَالُ: رتھی جس سے اونٹ کے زانو کو باندھا

جائے۔ سر پر باندھنے کی رتھی۔ العَقَالُ: اونٹ یا
بکری کی ایک سال کی زکوٰۃ۔ کہا جاتا ہے "أَذْيَتْ
عِقَالٌ سَنَةً" یعنی ایک سال کی زکوٰۃ میں سے ادا کر
دی۔ عِقَالُ المَیْنِیْنِ: وہ شریف جو قید کیا جائے تو دو
سو اونٹوں کا دبیہ ادا کرے۔

العَاقِلُ: قا۔ سمجھدار ج عَقْلًا و عَاقِلُونَ و
عَقَالٌ اور عورت کو بھی مائل کہا جاتا ہے العَاقِلُ:
پہاڑی بکرا دست ادا کرنے والے ج عَاقِلُهُ۔

العَاقِلَةُ: مَوْنِتٌ عَاقِلٌ۔ سمجھنے کی قوت۔ عَاقِلَةُ
الرَّجُلِ: باپ کی طرف کے رشتہ دار۔
العَقُولُ: سمجھدار۔ قابض دوا۔

العَقِيْلُ: معقول۔
العَاقِلُونَ: دریا کا بڑا حصہ۔ موج۔ وادی یا نہر کا
موربے نشان زمین۔ ہم امور ج عَوَالِلُ۔

العُقَالُ: جانوروں کی ٹانگ کی بیماری۔
العَقِيْلَةُ: مِنَ النِّسَاءِ: شریف پر وہ نسین
عورت۔ مِنَ الإِبِلِ: عمدہ قسم کے اونٹ
۔ مِنَ القَوْمِ: سردار۔ مِنَ كَلِّ شَيْءٍ:
ہر چیز کا عمدہ حصہ۔ عَقِيْلَةُ البَحْرِ: موتی ج
عَقَابِلٌ۔

المَعْقِلُ: جائے پناہ۔ اونٹ باندھنے کی جگہ۔
بلند پہاڑ ج مَعَاقِلُ۔

المَعْقَلَةُ: خون بہا۔ تاوان۔ کہا جاتا ہے "صَارَ
دَمُهُ مَعْقَلَةً"۔ عَلِيٌّ قَوْمٌ: یعنی اس کا خون تاوان
ہو گیا جس کو وہ ہر سال ادا کرتے ہیں۔ ج مَعَاقِلُ۔
المَعْقُولُ: سمجھا ہوا۔ عقل ج معقولات۔
علم المَعْقُولَاتِ: وہ علم جس میں عقلی چیزوں
سے بحث کی جائے۔

عَقَمْتُ (ن) عَقْمًا و عَقَمْتُ (ك)
عَقْمًا و عَقِمْتُ (س) عَقْمًا و عَقِمْتُ عَقْمًا و
عَقَمًا۔

المَرْؤَةُ أَوْ الرَّجُلُ: بانجھ ہونا۔ صفت عَقِيمٌ۔
عَقِمْتُ مَقَامِيْلَهُ: جوڑوں کا ٹانگ ہونا۔
عَقِمَ (س) عَقْمًا: خاموش ہونا۔

عَقَمَ (ض) عَقْمًا و أَعَقَمَ و عَقَمَ اللّٰهُ
المَرْؤَةَ: بانجھ کرنا۔ عَقَمَهُ: خاموش کرنا۔ عَقَمَ
الشَّيْءُ: جراثیم کو مار دینا۔

عَاقَمَهُ مَعَاقِمَةً: جھگڑا کرنا۔ خصومت کرنا۔
گال دینا۔
إِعْقَمَ إِلَيْهِ: آنا جانا۔ فی الأمرِ: دخل
دینا۔

العَقْمُ و العَقْمَةُ و العَقْمَةُ: سرخ کپڑا۔ نقش و
نگار کی ایک قسم۔
المَرْؤَةُ العَقِيمَةُ: بانجھ عورت ج عَقَائِمٌ و
عَقْمٌ۔

الرَّجُلُ العَقِيمُ: بے اولاد مرد ج عَقَمَاءٌ و
عِقَامٌ و عَقْمِيٌّ۔ عقل عقیم: عقل جس میں
کوئی خیر نہ ہو۔

حَزْبٌ عَقِيمٌ: سخت لڑائی۔ کہا جاتا ہے "الدُّنْيَا
عَقِيمٌ" یعنی دنیا بے برکت ہے۔

حَرَبٌ عَقَامٌ و عِقَامٌ: سخت لڑائی۔ ذَاةٌ
عَقَامٌ: لاعلاج مرض۔ يَوْمٌ عَقَامٌ: سخت دن۔
العِقَامُ: بے اولاد۔ بدخلق۔

العَقِيْمَةُ: مِنَ الأَرْحَامِ: بانجھ ج عَقَائِمٌ۔
العَقِيْمِيُّ و العَقِيْمِيُّ مِنَ الكَلَامِ: پوشیدہ
کلام۔

العَقِيْمِيُّ: خاندانی شرافت والا۔
المَعْقِمُ: بڑیوں کا جوڑ۔ ریڑھ کی ہڈی کے

معرض عقاقیم معاقیم الخیل: گھوڑے کے جوڑ۔

المتعقون: من الرجال: بے اولاد۔

عقا یعقو عقوا واعتقی اعتقاء: کنواں کھودنا اور ایک جانب سے سوت نکالنا۔ عقا

العلم: جھنڈا بلند ہونا۔ عقا الأمر: کمرہ جانا۔ فلان: روکنا اعتقی الرجل: رکنا۔

عقا وعاقاه: روکنا۔

العقوة: گھر کا گردا گرد۔ میدان۔ محلج عقاء۔

عقی یعقی عقیا: الأمر: کمرہ جانا۔

وعقی الولد: بچے کو گھسی پانا۔ عقی الظاہر: اڑنے میں بلند ہونا۔

أعقی إعتقاء: اڑنا ہونا۔ الشی: مکروہ جانا۔

العقی: نوزائیدہ بچے کا پانچا حج اعتقاء۔

العقیان: خالص سونا۔

عک (ان ض) عکاً الیوم: سخت گرمی مع

عکس کے ہونا۔ صفت عک و عکک عکة

الحمی: لگا تار بخار ہونا۔ الرجل: جن کا

ٹال منول کرنا عک عن حاجتہ: باز رکھنا

ہو بالنعجة: مطلوب کرنا۔ ہ

بالأمر أو بالقول: بار بار بات کہہ کے تھکا دینا

ہو بالسوط: کوڑے سے مارنا۔ ہ

یشتر: بار بار کرنا۔ الكلام: وضاحت

کرنا۔

عک: گرمی سے جوش مارنا۔ الرجل: سخت بخار چڑھنا۔

عاکہ علیہ: مائل کرنا۔

العکة والعکة والعکة والعکاک و

العکیک: عکس کے ساتھ سخت گرمی۔ العکة

والعکة: تیز بخار۔ گرم ریت۔ العکة: گھی کا

ڈبچ عکک و عکاک۔ اور اسی سے ہے

سین الصبیح حتی صارا العکة بڑھتا ہوا

یہاں تک کہ مانند ڈبے کے ہو گیا۔ نیلة عکة:

سخت گرمی والی رات۔ یوم عکیک: سخت گرم

دن عکک۔

عکبت (ان) عکرتا الإبل: اونٹوں کا بھیڑ

کرنا۔

القدر: ہانڈی کا جوش مارنا۔ عکبت

الرجل: ٹھہرنا۔

عکبت (س) عکبتا مولے ہونٹ اور جڑے

والا ہونا۔ بھیر کی قریب قریب انگلی والا ہونا۔ صفت

أعکبت مؤنت عکبتا ج عکبت۔

عکبت الشار: دھوئیں والی آگ ہونا۔

تعکبتة الهموم: فکرات اور غموں کا جھوم

کرنا۔

أعکبت العیاض: غبار اٹھنا۔ العیاض:

غبار اڑانا۔ المكان: غبار والا ہونا۔

الإبل: کسی جگہ میں جمع ہونا اور غبار اڑانا۔

العکب والعکوب العاکوب والعکاب۔

غبار۔ العکاب: دھواں۔ ہانڈی کی بھاپ۔

العاکب: فابھیڑ۔ انہوں نے عکوب۔

الاعکب والعکاب والعکب: عکبوت

بمعنی کڑی کا اسم جمع۔

العکوب: غبار۔ ایک قسم کی خار دار سبزی کو

کچی اور کچی دونوں طرح سے کھالی جاتی ہے۔

العکب: ایک چیز جس کو شہ کی کہی اپنے بازو

وغیرہ پر لگا کر لاتی ہے اور اس کو شہ کی جگہ میں

رکھتی ہے۔

عکبتة: مضبوط باندھنا۔

تعکبش: لہو الغضب: شہ کے کانٹے چھٹنا۔

عکذ (ض) عکذوا وعکذوا لہو: پناہ لینا۔

عکذ الأمر فلاناً: ممکن ہونا۔

عکذ (س) عکذوا الضب: بچو کا موٹا ہونا۔

صفت عکذ۔

عکذیدو اعتکذہ لازم ہونا۔

استعکذ الضب: بچو کا موٹا ہونا۔ الماء: پانی کا

جمع ہونا۔

عکذ الشی: چیز کا درمیان۔ کہا جاتا ہے

عکذک هذا الأمر یعنی فلاں امر تمہارے لئے

غایت ہے۔

العکذة: مغز کی بڑی توت گوہ کا سوراخ۔

عکذة اللسان: زبان کی جڑ۔

عکوز (ان ض) عکوزا وعکوزا علیہ: حملہ

کرنا۔ پھرنا۔ مڑنا۔ مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے "عکوز

علیہ الزمان بخیو" زمانہ اس پر خیر و برکت کے

ساتھ مائل ہوا۔

عکوز (س) عکوزا الماء ونحوہ: پانی کا گدلا

ہونا۔ صفت عکوز۔

عکوزا وعکوزا الماء: پانی کو گدلا کرنا۔

وأعکوز اللیل: رات کا سخت تاریک ہونا۔

أعکوز الرجل: مرد کو دوبارہ حملہ کرنا۔

اعتکوز: علیہ: حملہ کرنا۔ اللیل:

رات کا سخت تاریک ہونا۔ العکوز: سخت

بارش ہونا۔ اعتکوز الریح: ہوا کا غبار اڑانا

و تعاکوز القوم فی الحزب: جھسان کی

جنگ کرنا۔

العکوز: تلوار کا مورچہ۔ من کل

شیئ: تھمت۔

العکوز: اصل۔ جڑ۔ کہا جاتا ہے "و جمع فلان"

إلی عکوزہ" یعنی فلاں اپنی اصل کی طرف لوٹ

گیا۔ عادت۔

العکوزة والمعکوز: بھاگنے کے بعد دوبارہ

حملہ۔

العکوزة: اونٹوں کا گلہ۔ زبان کی جڑ عکوز۔

اختاروا والتباس: کہا جاتا ہے "وقفوا لہی عکوزة"

یعنی وہ گڑبڑی میں پڑ گئے۔

العکاز: بہت زیادہ حملہ کرنے والا۔

غلام عکوز: موٹا تازہ لاکا۔

العکوزة: خرگوش ماہ۔

عکوزم اللیل: رات کی تاریکی۔ عکوزة

معرف: بحالت علم۔ اور العکوزة: کبوتری یا ماہ

قمری۔

عکوز (ان) عکوزا الریح: نیزہ گاڑنا۔

بالشی: راستہ پانا۔ (عکوز) علی

عکازتہ: ڈنڈے پر سارا لینا۔ تعکوز قوزسہ:

کمان کو سارا لینا۔

عکوز (س) عکوزا سکرا۔

عکوز الریح: نیزے میں پھل لگانا۔

العکوز: بچل بہ لعل۔

العکاز والعکازة: ڈنڈا جس میں نیچے پھل لگا

ہوا ہو ج عکاکوز و عکازات۔ العکازیل:

شیر کا بچہ۔

عکس (ض) عکسنا الكلام ونحوہ: کلام

الرَّجُلُ: بچاڑا۔ البعير: اونٹ کورسی سے بازو اور پاؤں ملا کر باندھنا۔ عكَلٌ فِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔ فَلَانٌ مَرْتًا: وَأَعْكَلٌ وَاعْتَكَلَ عَلَيْهِ: مشکل و مشتبہ ہونا۔ اعْتَكَلَ الرَّجُلُ: جدا ہونا۔ الْقَوَازِنُ: بیلوں کا بیگلوں سے لڑنا۔
العُكْلُ والعُكْلُ: لیم۔ کینج اعْكَال۔ العاكِلُ: فاجیل۔ جھوٹے تدوالات عكَل۔ العِكالُ: اونٹ کے زانو باندھنے کی رسی۔ المِعْكَالُ: چرواہے کی سوئی جس کو وہ درخت سے بٹالتا ہے۔ ج معاكِل۔
عكَمَ (ض) عَكَمًا: المتاع: سلمان کی گھڑی باندھنا۔ عَلَيْهِ: حملہ کرنا۔ الرَّجُلُ: انتظار کرنا۔ عَنِ الْأَمْرِ: پیچھے ہٹنا۔ هُ عَنِ زِيَارَتِهِ: ہٹانا۔ البعير: اونٹ پر باندھنا۔ لَا زُهْيَ كَذَا: قصد کرنا۔
عكِمَ عَقَهُ: ہٹایا جانا۔ عكَمَتِ الْأَيْلُ: اونٹوں کا موٹا ہونا۔ اعْكَمَهُ: باندھنے میں مدد دینا۔ بندھوانا۔ عاكَمَةٌ مُعَاكَمَةٌ عَلَى فَلَانٍ: مدد کرنا۔ اعْتَكَمَ الشَّيْءُ: ڈھیر لگانا۔
العِكمُ ج اعكام و عكوم۔ لعكام ج عكُم: گھڑی۔ العِكمُ: بوری۔ بنڈل۔ گھڑی کو تھیں کی چرخی۔ عورتوں کے سلمان رکھنے کا بیگ۔ کہا جاتا ہے "مَالَةٌ عَكُومٌ عَنِ كَذَا" یعنی اس کے لئے فلاں چیز سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ المِعْكَمُ: برگوثہ۔ تَعَكَّنَ: البظن: موٹاپے کی وجہ سے سلوت پڑنا۔
العُكْنَةُ: بیگ کی سلوت۔ ج عكَنَ و اعْكَانَ و دِنَ عَدَاتِ عَكِنَ: وسیع و کشادہ زرہ۔ العِكانُ: گلا۔ العِكَانُ مِنَ التَّوْقِ او الشَّاءِ: موتے تھن والی اونٹنی یا بکری۔ العِكَانُ: بہت اونٹ۔ بہت شتر مرغ۔ عَكَا عَكَوْ عَكَوْ: ذَنْبُ الدَّابَّةِ: جانور کی دم کو اس کی جڑ کی طرف موڑنا۔ کہا جاتا ہے "فَوْشٌ

عَكَصَهُ (س) عَكَصًا عَنِ حَاجَتِهِ: ہٹانا۔ پھیر دینا۔
عَكِضَ (س) عَكِضًا بَدْحُو: ہونا۔ صفت عكص عكصت الذابئة: سرکشی کرنا۔ تَعَكَّضَ بِكَذَا عَلَيْهِ: بخل کرنا۔ زَمَلَةٌ عَكِصَةٌ: دشوار گزار تودہ ریت۔ عَكِظَةٌ (ض) عَكِظًا: مغلوب کرنا۔ فخر کو رد کر دینا۔ روكنا۔ الشَّيْءُ: رگڑنا۔ الاوِيْمُ: چڑے کو بداعت کیلئے رگڑنا۔ عَكِظَ بِالشَّيْءِ: فخر کرنا۔ عَكِظَةٌ و عَكِظَةٌ عَنِ حَاجَتِهِ: ہٹانا۔ پھیر دینا۔ عَاكِظَةٌ مُعَاكِظَةٌ: ٹال دینا۔ تَعَكَّظَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔ الْقَوْمُ: اجتماع کرنا۔ پھیر دینا۔ تَعَاكَظَ الْقَوْمُ: مقابلہ کرنا۔ آپس میں فخر کرنا۔ بھگڑ کرنا۔ العِكَظُ و العِكَظُ: جھوٹے تدوالات۔ عَكَاظَ: عَرَبُ کے ایک بازار کا نام تھا جس میں عرب کے قبائل جمع ہوا کرتے اور بیچ و فروخت کرتے تھے اور مفاخرت کے اشعار پڑھا کرتے تھے (مذکورہ سب سے) عَكِظَةٌ (ن ض) عَكِظًا عَنِ الْأَمْرِ: منع کرنا۔ هُ عَلَى الْأَمْرِ: کسی چیز پر روکے رکھنا۔ عَكِظًا و عَكُوفًا: الْقَوْمُ حَوْلَهُ و يَه: گرد آ گرد پکڑ لگانا۔ عَكِظَ عَلَى الْأَمْرِ: پیش لازم رہنا۔ و اعْتَكَفَ و تَعَكَّفَ: فِي الْمَكَانِ: بند رہنا۔ عَكِظَ الْجَوْهَرَ: بندہ رکھنا۔ الشَّعْرُ: بالوں کو ٹھکرایا کرنا۔ هُ عَنِ كَذَا: روکنا۔ منع کرنا۔ عَاكِفَةٌ مُعَاكِفَةٌ: لازم رہنا۔ العِكَفُ مِنَ الشَّعْرِ: ٹھکرایا لے بال۔ العَاكِفُ: فاجیم۔ ج عَاكِفُونَ و عَكِفٌ و عَكُوفٌ شَعْرٌ مُعَكُوفٌ: گھسی چوٹی کئے ہوئے بال۔ المِعْكَفُ: مضم۔ مڑا ہوا۔ ٹیڑھا۔ عَكِلَ (ن ض) عَكَلًا: الشَّيْءُ: بکھرنے کے بعد اکتھا کرنا۔ المتاع: سلمان بندہ رکھنا۔

کو الٹ دینا۔ الشَّيْءُ: آخر کو اول کی طرف کر دینا۔ زمین کی طرف جھٹکا دے کر چھینچا اور پکڑ دینا۔ البعير: اونٹ کو تیل لگا کر رسی کو ٹانگ سے باندھ دینا۔ زَأَسَ البعير: اونٹ کے سر کو موڑنا۔ هُ عَنِ الْأَمْرِ: پھیر دینا۔ ہٹا دینا۔ عَلَى فَلَانٍ أَمْرُهُ: کسی کے معاملہ کو اسی پر لٹا دینا۔ القَطْعَامُ: کھانے میں دودھ ملا ہوا شوریا ڈالنا۔ عَكِشَ (س) عَكِشًا: تنگ خو ہونا۔ عَاكِشٌ مُعَاكِشَةٌ و عَاكِشًا الْكَلَامَ: کلام کو پلٹ دینا۔ هُ: ایک دوسرے کی پیشانی کو پکڑنا اور عوام کے استعمال میں بمعنی مخالفت کرنا۔ تَعَكَّشَ فِي مَشْيَتِهِ: ریبک کر پلٹنا۔ تَعَاكَشَ و اعْتَكَشَ و انعكس: پلٹ جانا۔ اعْتَكَسَ: دودھ ملا ہوا شوریا پلٹنا۔ عِكَاشُ البعير: گھیل کی رسی جو اونٹ کے زانوں میں باندھ دیتے ہیں۔ العِكَاشُ: نرکڑی۔ العِكَيشُ: دودھ جو شوربے میں ملایا جاتا ہے۔ رسی جس سے اونٹ کو روکتے ہیں۔ درخت کی شاخ جس کو زمین کے نیچے ربا دیتے ہیں کہ اس سے دوسرا درخت نکلتا ہے۔ العِكَيشَةُ: بہت سے اونٹ۔ تاریک رات۔ عَكِشَ (س) عَكِشًا: الشَّعْرُ: بالوں کا پیچیدہ اور بند ہونا۔ النِّبْتُ: نباتات کا بہت ہونا اور گنجان ہونا۔ عَكِشَ (ض) عَكِشًا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ صفت عَكِشٌ: صفت مفعولی معکوش۔ الرُّجُلُ: مضبوط باندھنا۔ عَلَيْهِ: حملہ کرنا۔ تَعَكَّشَ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔ الشَّيْءُ: سگڑنا۔ الشَّعْرُ: بالوں کا پیچیدہ اور بند ہونا۔ العِكَيشُ: مِنَ الشَّعْرِ: پیچیدہ اور بند ہونا۔ بیکار و فضول آدمی۔ مُسَجِرَةٌ عَكِشَةٌ: بہت زیادہ شاخ دار گنجان درخت۔ العِكَاشُ و العِكَاشُ و العِكَاشَةُ و العِكَاشَةُ: بکڑی یا بکڑی کا جالا۔

عَلَبَ و عَلَبَ و اسْتَعْلَبَ اللَّحْمُ: سخت ہونے کے بعد بو کا بدل جانا۔ عَلَبَ الشَّيْفُ: دندان دار ہونا۔

العَلَبُ: مار کا نشان () وَالْعَلْبُ والعَلْبُ: سخت زمین جس میں کچھ نہ اُگے۔ سخت چیز جَعْلُوبُ: کہا جاتا ہے "رُجْلُ عَلْبٍ" سخت ظالم آدمی۔

العَلْبَةُ: چمڑے یا لکڑی کا بنا برتن جَعْلَابُ و عَلَبُ:

العَلْبَةُ: درخت کی موٹی گہرہ۔ جَعْلُوبُ: العَلْبَاءُ: گردن کے پہلو کا پھانج عَلَابِيٌّ: کہا جاتا ہے "تَشْتَجُ عَلْبَاءُ" وہ بوڑھا ہو گیا۔

عَلَّتْ (ض) عَلَّتْنَا: الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ الشَّيْءُ بالشَّيْءِ: بلانا۔ کہا جاتا ہے عَلَّتِ النَّبْرُ بالشَّعِيرِ: گیہوں کو جو میں ملادیا۔ الرَّزْدُ: شہماق سے آگ نہ لگانا۔

عَلَّتْ (س) عَلَّتْنَا الْقَوْمَ: آپس میں سختی سے لڑنا۔

تَعَلَّتْ لَهُ الدُّنُوبُ: جیلہ کرنا۔ مکر کرنا۔ یہ: پشٹا۔ الشَّيْءُ: اچھی طرح نہ بتانا۔

إِعْتَلَّتْ: بغیر انتخاب کئے ہوئے لے لینا۔ العَلَّتْ: گیہوں وغیرہ میں سے جو چیز نکال کر پھینکنے کے قابل ہو اس کو ملادیا جائے () والعَلْبِيَّةُ: گیہوں جو سے ملا ہوا۔

العَلَاةُ: دوسری چیز سے ملائی ہوئی چیز اور دوسرے جمع کرنے والا آدمی۔

أَعْلَاةُ: الزَّادُ: جو بغیر انتخاب اور عمارت کے کہا جاتا ہے۔

العَلَيْتُ: جو گیہوں کے روٹی۔ العَلَّتْ وَالْمُعْتَلِتُ: جو باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب ہو۔ بے کار تیر۔

عَلَجَةٌ (ن) عَلَجًا: معالجہ میں غالب آنا۔ عَلِجَ (س) عَلَجًا: مضبوط ہونا۔

عَالَجَةٌ مَعَالَجَةٌ وَعَالَجًا: مشق کرنا۔ المَرِيضُ: بیمار کا علاج کرنا۔

تَعَلَّجَ الزَّمَلَ: ریت کا نکھار ہونا۔ تَعَالَجَ: علاج کرنا۔ الْقَوْمُ: آپس میں جگ کرنا۔

هُ: بہتان لگانا۔ اِعْتَلَّتِ الكَلِمَةُ: حرف علت والا ہونا۔ الزُّجْلُ: دوسری مرتبہ پینا۔ عَتَّةٌ: اس کی وجہ سے بیمار پڑنا۔

العَلُّ: موٹا بڑا بکرا۔ بڑی عمر کا لغز۔ بیماری سے سکرے ہوئے چمڑے والا بے خیر و برکت۔ جَعْلَالُ: اَعْلَالُ:

العَلَّةُ: بھلاوہ۔ سوکن جَعْلَالَتُ: کہا جاتا ہے بنو علات: یعنی ایک مرد سے چند ماؤں کے بیٹے اور اس کے نکس کو اولاد اِخْيَافِ کہتے ہیں۔

عَلُّ لَعْلٍ: میں ایک لغت ہے۔ العَلَّةُ: بیماری۔ مشغول کر دینے والا واقعہ۔ اور اسی سے ہے "لَا يَعْتَدُمُ مَانِعٌ عِلَّةً" اس شخص کے لئے مثال بیان کی جاتی ہے جو عذر کرتا ہے اور اپنے مانی الید کے بچانے کیلئے منع کر دیتا ہے عِلَّةُ الشَّيْءِ: سبب جَعْلَالَتُ و عِلَلُ جَعْلَالُ العِلَالَتُ: حالات: مختلف احوال۔ کہا جاتا ہے "جَزِيءٌ عَلِيٌّ عَلَاتِيَّةٌ" یعنی ہر حال میں۔ یا باوجود مختلف احوال کے قبول کیا گیا۔ والعِلَّةُ فِي العُرُوضِ: وہ تغیر جو اشعار کے عروض و ضرب میں لازمی طور پر لاحق ہو۔ سوائے نادر صورتوں کے حرف العلة: الف و واو یا۔

العَلَلُ: دوسری مرتبہ پینا۔ کہا جاتا ہے عَلَلٌ بَعْدَ نَهْلٍ پہلی مرتبہ پینے کے بعد دوسری مرتبہ پینا۔ العَلَالَةُ وَالْمَعْلَةُ: بھلاوہ۔ العَلَالَةُ: پہلی مرتبہ دودھ دھونے کی سہمت کے بعد دودھا ہوا دودھ۔ بقیہ دودھ 'بیزہ بازی کے بعد بیزہ بازی' دوڑ کے بعد دوڑ۔

العَلِيلُ: مریض جَعْلَالُ: المَعْلُ وَالْمَعْلُولُ: مریض۔ العَلِيلَةُ: مَوْتٌ عَلِيلٌ: عورت جو بار بار خوشبو لگائے۔ جَعْلَالَاتُ و عَلَالَاتُ: العَلِيلُ: سفید حوض۔ پانی کا بلبل۔ سفید بادل۔ بے بارش۔ بارش کے بعد بارش۔ دو کوہان والا اُونٹ۔ جَعْلَالُ: یا زائد ہے۔

عَلَبَ (ن) عَلَبْنَا و عَلَبَ الشَّيْءُ: کانا۔ نشان لگانا۔ خراش لگانا۔ عَلَبَ (ن) عَلَبْنَا و عَلَبَ (س) عَلَبْنَا: سخت ہونا۔ صفت عَلَبَ:

مَعْلُوكٌ: یعنی دم مڑا ہوا گھوڑا۔ هُ فِي العَلِيدِ: قید کرنا اور باندھنا۔ عَكَبَتِ الأَيْلُ: موٹا ہونا۔ عَكَا الصَّبُّ بِذَنبِهِ: گمراہ کا اپنی دم کو موڑنا۔ الدُّخَانُ: دھوئیں کا اوپر چڑھنا۔

عَلِيٌّ قَوْمِهِ: مائل ہونا۔ بِإِزَارِهِ: ازار باندھنے کی جگہ کو سخت کرنا۔

العَكْوَةُ و العَكْوَةُ: جانور کی دم کی جڑ۔ زبان کی جڑ۔ ازار بند کی موٹی گہرہ۔ ہر چیز کا بڑا حصہ۔ ہر چیز کی موٹائی۔ العَكْوَةُ: تکلانج عَكَا و عَكَا۔ العَكِيٌّ مِنَ النَّبَانِ الضَّانِ: ایک دوسرے پر دودھ دوہا ہوا اور جمنا ہوا۔

الأَعْكِيُّ: سخت دم کی جڑ والا۔ موٹی پیشانی والا۔ مَوْتٌ عَكَا و عَكَا۔ عَكِيٌّ يَعْكِي و عَكِيٌّ و اعْكِيٌّ: مرنا۔ عَكِيٌّ بِإِزَارِهِ: ازار باندھنے کی جگہ کو سخت کرنا۔ بِالضَّكَّانِ: اقامت کرنا۔ صفت عَالِجٌ عَكَاةً: اعْكَاةً: مضبوط۔ باندھنا۔ عَكِيٌّ الدُّخَانُ: دھوئیں کا اوپر چڑھنا۔

عَلَّ (ن) ض) عَلَّ و عَلَّ و عَلَّ دوسری مرتبہ پینا۔ هُ: دوسری مرتبہ پلانا۔ هُ حَضْرًا: لگانا۔ مَرِيضٌ: مریض ہونا۔ عِلَّةٌ: بار بار پلانا۔ هُ بَكْدًا: مشغول کرنا۔ کھیل کو میں ڈالنا۔ عَلَّ الشَّيْءُ: علت بیان کرنا۔ دلیل سے ثابت کرنا۔ الكَلِمَةُ: کلمہ کی تعلیل کی وجہ بیان کرنا۔ تعلیل کرنا۔ الثَّمَرَةُ: بار بار پھل توڑنا۔ الصَّالِ: بہترین انتظام کرنا۔ هُ: علاج کرنا۔

أَعْلَ: الزُّجْلُ: گھومت گھومت پلانا۔ هُ اللُّهُ: بیمار کرنا۔ الكَلِمَةُ: تعلیل کرنا۔ تَعَلَّلَ: حجت ظاہر کرنا۔ بَكْدًا: مشغول رہنا۔ تَعَلَّلْتُ و تَعَلَّلْتُ: المَرَاةُ مِنَ نَفَاسِهَا: نفاس سے پاک ہو جانا۔ تَعَالَلُ الصَّبِيُّ لِنَدَى أُمِّهِ: بچے کا پستان سے سارے دودھ کو چوس لینا۔

إِعْتَلَّ: مریض ہونا۔ بِالْأَمْرِ: مشغول رہنا۔ عذر بیان کرنا۔ اِعْتَلَّتِ الرِّيْحُ: نرم ہونا۔

عَلَّ (ن) ض) عَلَّ و عَلَّ دوسری مرتبہ پینا۔ هُ: دوسری مرتبہ پلانا۔ هُ حَضْرًا: لگانا۔ مَرِيضٌ: مریض ہونا۔ عِلَّةٌ: بار بار پلانا۔ هُ بَكْدًا: مشغول کرنا۔ کھیل کو میں ڈالنا۔ عَلَّ الشَّيْءُ: علت بیان کرنا۔ دلیل سے ثابت کرنا۔ الكَلِمَةُ: کلمہ کی تعلیل کی وجہ بیان کرنا۔ تعلیل کرنا۔ الثَّمَرَةُ: بار بار پھل توڑنا۔ الصَّالِ: بہترین انتظام کرنا۔ هُ: علاج کرنا۔

أَعْلَ: الزُّجْلُ: گھومت گھومت پلانا۔ هُ اللُّهُ: بیمار کرنا۔ الكَلِمَةُ: تعلیل کرنا۔ تَعَلَّلَ: حجت ظاہر کرنا۔ بَكْدًا: مشغول رہنا۔ تَعَلَّلْتُ و تَعَلَّلْتُ: المَرَاةُ مِنَ نَفَاسِهَا: نفاس سے پاک ہو جانا۔ تَعَالَلُ الصَّبِيُّ لِنَدَى أُمِّهِ: بچے کا پستان سے سارے دودھ کو چوس لینا۔

إِعْتَلَّ: مریض ہونا۔ بِالْأَمْرِ: مشغول رہنا۔ عذر بیان کرنا۔ اِعْتَلَّتِ الرِّيْحُ: نرم ہونا۔

عَلَّ (ن) ض) عَلَّ و عَلَّ دوسری مرتبہ پینا۔ هُ: دوسری مرتبہ پلانا۔ هُ حَضْرًا: لگانا۔ مَرِيضٌ: مریض ہونا۔ عِلَّةٌ: بار بار پلانا۔ هُ بَكْدًا: مشغول کرنا۔ کھیل کو میں ڈالنا۔ عَلَّ الشَّيْءُ: علت بیان کرنا۔ دلیل سے ثابت کرنا۔ الكَلِمَةُ: کلمہ کی تعلیل کی وجہ بیان کرنا۔ تعلیل کرنا۔ الثَّمَرَةُ: بار بار پھل توڑنا۔ الصَّالِ: بہترین انتظام کرنا۔ هُ: علاج کرنا۔

أَعْلَ: الزُّجْلُ: گھومت گھومت پلانا۔ هُ اللُّهُ: بیمار کرنا۔ الكَلِمَةُ: تعلیل کرنا۔ تَعَلَّلَ: حجت ظاہر کرنا۔ بَكْدًا: مشغول رہنا۔ تَعَلَّلْتُ و تَعَلَّلْتُ: المَرَاةُ مِنَ نَفَاسِهَا: نفاس سے پاک ہو جانا۔ تَعَالَلُ الصَّبِيُّ لِنَدَى أُمِّهِ: بچے کا پستان سے سارے دودھ کو چوس لینا۔

إِعْتَلَّ: مریض ہونا۔ بِالْأَمْرِ: مشغول رہنا۔ عذر بیان کرنا۔ اِعْتَلَّتِ الرِّيْحُ: نرم ہونا۔

عَلَّ (ن) ض) عَلَّ و عَلَّ دوسری مرتبہ پینا۔ هُ: دوسری مرتبہ پلانا۔ هُ حَضْرًا: لگانا۔ مَرِيضٌ: مریض ہونا۔ عِلَّةٌ: بار بار پلانا۔ هُ بَكْدًا: مشغول کرنا۔ کھیل کو میں ڈالنا۔ عَلَّ الشَّيْءُ: علت بیان کرنا۔ دلیل سے ثابت کرنا۔ الكَلِمَةُ: کلمہ کی تعلیل کی وجہ بیان کرنا۔ تعلیل کرنا۔ الثَّمَرَةُ: بار بار پھل توڑنا۔ الصَّالِ: بہترین انتظام کرنا۔ هُ: علاج کرنا۔

أَعْلَ: الزُّجْلُ: گھومت گھومت پلانا۔ هُ اللُّهُ: بیمار کرنا۔ الكَلِمَةُ: تعلیل کرنا۔ تَعَلَّلَ: حجت ظاہر کرنا۔ بَكْدًا: مشغول رہنا۔ تَعَلَّلْتُ و تَعَلَّلْتُ: المَرَاةُ مِنَ نَفَاسِهَا: نفاس سے پاک ہو جانا۔ تَعَالَلُ الصَّبِيُّ لِنَدَى أُمِّهِ: بچے کا پستان سے سارے دودھ کو چوس لینا۔

إِعْتَلَّ: مریض ہونا۔ بِالْأَمْرِ: مشغول رہنا۔ عذر بیان کرنا۔ اِعْتَلَّتِ الرِّيْحُ: نرم ہونا۔

عَلَّ (ن) ض) عَلَّ و عَلَّ دوسری مرتبہ پینا۔ هُ: دوسری مرتبہ پلانا۔ هُ حَضْرًا: لگانا۔ مَرِيضٌ: مریض ہونا۔ عِلَّةٌ: بار بار پلانا۔ هُ بَكْدًا: مشغول کرنا۔ کھیل کو میں ڈالنا۔ عَلَّ الشَّيْءُ: علت بیان کرنا۔ دلیل سے ثابت کرنا۔ الكَلِمَةُ: کلمہ کی تعلیل کی وجہ بیان کرنا۔ تعلیل کرنا۔ الثَّمَرَةُ: بار بار پھل توڑنا۔ الصَّالِ: بہترین انتظام کرنا۔ هُ: علاج کرنا۔

أَعْلَ: الزُّجْلُ: گھومت گھومت پلانا۔ هُ اللُّهُ: بیمار کرنا۔ الكَلِمَةُ: تعلیل کرنا۔ تَعَلَّلَ: حجت ظاہر کرنا۔ بَكْدًا: مشغول رہنا۔ تَعَلَّلْتُ و تَعَلَّلْتُ: المَرَاةُ مِنَ نَفَاسِهَا: نفاس سے پاک ہو جانا۔ تَعَالَلُ الصَّبِيُّ لِنَدَى أُمِّهِ: بچے کا پستان سے سارے دودھ کو چوس لینا۔

إِعْتَلَّ: مریض ہونا۔ بِالْأَمْرِ: مشغول رہنا۔ عذر بیان کرنا۔ اِعْتَلَّتِ الرِّيْحُ: نرم ہونا۔

عَلَّ (ن) ض) عَلَّ و عَلَّ دوسری مرتبہ پینا۔ هُ: دوسری مرتبہ پلانا۔ هُ حَضْرًا: لگانا۔ مَرِيضٌ: مریض ہونا۔ عِلَّةٌ: بار بار پلانا۔ هُ بَكْدًا: مشغول کرنا۔ کھیل کو میں ڈالنا۔ عَلَّ الشَّيْءُ: علت بیان کرنا۔ دلیل سے ثابت کرنا۔ الكَلِمَةُ: کلمہ کی تعلیل کی وجہ بیان کرنا۔ تعلیل کرنا۔ الثَّمَرَةُ: بار بار پھل توڑنا۔ الصَّالِ: بہترین انتظام کرنا۔ هُ: علاج کرنا۔

أَعْلَ: الزُّجْلُ: گھومت گھومت پلانا۔ هُ اللُّهُ: بیمار کرنا۔ الكَلِمَةُ: تعلیل کرنا۔ تَعَلَّلَ: حجت ظاہر کرنا۔ بَكْدًا: مشغول رہنا۔ تَعَلَّلْتُ و تَعَلَّلْتُ: المَرَاةُ مِنَ نَفَاسِهَا: نفاس سے پاک ہو جانا۔ تَعَالَلُ الصَّبِيُّ لِنَدَى أُمِّهِ: بچے کا پستان سے سارے دودھ کو چوس لینا۔

إِعْتَلَّ: مریض ہونا۔ بِالْأَمْرِ: مشغول رہنا۔ عذر بیان کرنا۔ اِعْتَلَّتِ الرِّيْحُ: نرم ہونا۔

إِعْتَلَجَ الْقَوْمُ: لڑائی کرنا۔ کشمی کرنا۔
إِعْتَلَجَتِ الْوُحْشُ: ایک دوسرے کو مارنا
الْأَرْضُ: لمبے لمبے سبز والی ہونا
الْأَمْوَاجُ: موجوں کا آپس میں ٹکرائی اور اسی سے
ہے اِعْتَلَجَتِ الْهُمُومُ فِي صَدْرِهِ: غم اس کے
سینہ میں موج مارنے لگے الرَّمَلُ: ریت کا جمع
ہوتا۔

إِسْتَعْلَجَ جِلْدَهُ: کھال کا موٹا ہونا۔
فَلَانٌ: داڑھی لگانا۔

العَلَجُ: گدھا۔ جنگلی گدھا۔ گور خر۔ موٹا قوی
عجمی کافر۔ اور بعض مطلقاً کافر اطلاق کرتے ہیں۔
حِ عُلُوجٍ وَأَعْلَاجٍ وَعِلْجَةٍ:

زَجَلٌ عُلُجٌ وَعُلُجٌ وَعُلُجٌ وَعُلُجٌ: مضبوط
کاموں کا کرنے والا امر۔

العلاج: دوا۔ مثنیٰ۔ دوا۔
العلاج: چھوٹے چھوٹے بھجور کے درخت۔

العَلُوجُ: پیغام پتیا۔
العُلُجَانُ: کانٹے دار درخت۔

العَلْجَمُ: لمبا اونٹ یا گدھا۔ بہت پانی کا
الاب۔

العَلْجَمُ وَالْعُلْجُومُ: بہت سیاہ۔
العُلْجُومُ: بہت سمجھوروں والا باغ۔ سمندر کی

موج۔ رات کی تاریکی۔ نرمی۔ میڈھا۔
پھاڑی بکرا۔ بوڑھا صل۔ ایک سفید پردہ۔ نرمی۔

نر شتر مرغ۔ بہت پانی۔ جھاڑی۔ لوگوں کی
جماعت۔ حِ عِلْجِيمُ:

عَلِدٌ عَلْدًا: سخت و مضبوط ہونا۔ صفت۔ عَلْدُ:

العَلْدِيُّ وَالْعَلْدِيُّ مِنْ كَلِّ شَيْبِي: سخت و
موٹا حِ عِلْدِيُو عَلْدِيُو:

العَلْدِيُّ مِنْ كَلِّ شَيْبِي: سخت و موٹا۔
العَلْدِيَسُ: بہت سخت۔ العَلْدِيَسَةُ مَوْنَسُ:

العَلْدِيَسِيُّ: پیڑ۔ بندہ۔ غم۔
عَلَزٌ (س) عَلَزًا وَعَلَزَانًا: بے چین ہونا۔

صفت عَلَزٌ عَلَزًا إِلَى الشَّيْءِ: مائل ہونا۔
مُتَمَقِّقٌ هُوَ: مین کڈا۔ یہ تکلف مریض

ہوتا۔
أَعْلَزُهُ: عاجز کرنا۔ هُوَ الْوَجْعُ: بے چین

کرونا۔

عَلَسَ (ض) عَلَسْنَا الْمَاءَ: پینا۔ الْإِبِلُ
اُونٹ کا کھانے کے لئے کچھ نہ پانا۔

عَلَسَ: الدَّاءُ: مرض کا سخت ہونا
الرَّجُلُ شُورٌ بِمَا: کہا جاتا ہے "مَا عَلَسُوهُ"

تَعَلَّيْنَا" انہوں نے اسے کچھ نہیں کھلایا۔
العَلَسُ وَالْعَلَّاسُ وَالْعَلُوسُ: خوراک کھانا۔

العَلَسُ: گیہوں کی ایک قسم۔ مسور۔ ایک قسم کی
چیرٹی۔ چھڑکی۔

المُعَلَّسُ: تجزیہ کیا ہوا۔
العَلُوشُ: گیدڑ۔ بھیریا۔

عَلَصَتْ الشَّخْمَةُ فِي مَعْدَتِهِ: بد ہضمی کی وجہ
سے معدہ میں درد ہونا۔

عَالِصَةٌ عَالِصًا: ایک دوسرے کو مارنا۔
إِعْتَلَصَ مِنْهُ شَيْئًا: تھوڑا سا لپٹا۔

العُلُوصَةُ: تھوڑا سا۔
العُلُوصُ: بد ہضمی اور یہ لفظ صفت بھی واقع

ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ عُلُوصٌ" بد ہضمی
والا امر۔

عَلَصَةُ (ض) عَلَصْنَا: الْوَتْدُ وَنَحْوُهُ: کھونٹ
کو کھینچنے کے لئے ہلانا۔

عَلَطَ (ن) ض) عَلَطًا وَعَلَطَ التَّاقَةَ: اُونٹنی پر
داغ لگانا۔ هُوَ بَشِيرٌ: بد گوئی کرنا۔ عَلَطَ

الْبَيْعِيُّ: اُونٹ کی گردن سے پٹہ کو نکال دینا۔
تَعَلَّطَ الْقَوْمُ: تانت چڑھانا۔

إِعْتَلَطَ: الرَّجُلُ وَبِهِ: جھگڑا کرنا۔
إِعْلُوطَ الْبَيْعِيُّ: اُونٹ کی گردن سے لٹک کر

سوار ہونا۔ الْأَمْرُ: بلا سوچے سمجھے داخل
ہونا۔

العَلُطُ مِنَ الشُّوقِ: بے نشان و بے مہار اُونٹنی
حِ أَعْلَاطُ: أَعْلَاطُ الْكُوَاكِبِ: بے نام کے

ستارے۔
العَلُطَةُ: گردن کا پٹہ۔ حِ عِلْطُ:

العَلَاطُ: گردن کا پہلو۔ اَقْلَابُ كِبِ شَعَارِ: لڑائی و
جھگڑا۔ اُونٹ کی گردن کی رتس حِ أَعْلُطَةٌ وَعِلْطُ:

والا غلیظ (ط) اُونٹ کی گردن کا نشان۔
عَلَفَ (ض) عَلَفْنَا وَعَلَفَ: الدَّابَّةُ:

جانور کو چارہ دینا۔ عَلَفَ الرَّجُلُ: بہت پینا۔

أَعْلَفَ وَعَلَفَ الطَّلُحُ: بھلی لگانا۔
تَعْلَفُ: چارہ دھونڈنا۔

إِسْتَعْلَفَتِ الدَّابَّةُ: چارہ کھانا۔
إِسْتَعْلَفَتِ الدَّابَّةُ: بہت چارہ کھانا۔

العَلْفُ: بہت کھانے والا۔
العَلْفِيْفُ: چارہ ہی کھانے والا۔ حِ عِلْفَانُ:

المَعْلُوفَةُ: چارہ ہی کھانے والا۔
العَلْفُ: چارہ حِ عُلُوفَةٌ وَأَعْلَافُ

وعِلَافُ:

العَلَافُ: چارہ بیچنے والا حِ عِلَافَةٌ:

العَلْفِيْفَةُ: چارہ ہی کھانے والا جانور حِ

عِلْفَانُ:

العَلُوفَةُ: چارہ ہی کھانے والا جانور (واحد و جمع)
العَلُوفَةُ: چارہ حِ عُلْفُ:

المُعْلَفُ وَالْمِعْلَفُ: تھان۔ چارہ کھانے کی
جگہ حِ مَعَالِفُ:

عُلْفُ: ببول کی بھلی۔
عَلَفَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ہلانا۔

عَلَقَ (ن) عَلَقًا وَعَلَقًا: الْوَلُوقُ وَالْبَيْعِيُّ وَنَحْوُهُ:

النَّبَاتُ وَ مِنَ النَّبَاتِ: اوپر اوپر سے چرنا
الصَّيْبِيُّ: انگلیاں چوسنا۔ (عَلَقًا)

الرَّجُلُ: گلی دینا۔ هُوَ بِلَسَانِهِ: بد گوئی کر
کے تکلیف پہنچانا۔

عَلَقَتْ (س) عَلَقًا وَالْمَرْأَةُ وَكُلُّ أُنْثَى

بِالْوَلَدِ: حاملہ ہونا۔ الْوُحْشُ بِالْحَبَالَةِ:

وحشی جانور کا جال میں پھنس جانا۔ الدَّابَّةُ:

جانور کا پانی پینا اور جو تک کا چمٹ جانا۔

الشُّؤْلُكَ بِالْقَوْبِ: کپڑے میں کانٹے کا لٹک جانا
عَلَقًا: الْإِبِلُ فِي الْوَادِي: چرنے کے لئے

جانا۔
عَلَقَ (س) عَلَقًا وَعَلَقًا وَعَلَقًا وَعَلَقًا:

فَلَانًا وَعَلَقَ بِهِ: محبت کرنا۔ حُبُّهُ بِقَلْبِهِ: محبت
کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَلِقَ مِنْهُ كُلُّ مَعْلُقٍ" یعنی

اس سے اس نے محبت کی اور محبت دل کے
پرے میں داخل ہو گئی۔ عَلِقَ ذَمٌ فَلَانٌ: قتل

کرنا۔ ہر وہ چیز جو اپنے موقع میں واقع ہو اس کیلئے
عَلِقَ مَعَالِيقَهُ بولتے ہیں (عَلَقًا) أَمْرُهُ:

جانا عَلِقَ بِفَعْلٍ كَذَا: کرنے لگا۔

العَلَاكُ: بمت چبانے والا۔ گو تہ پینے والا۔
 عَلَمَةٌ (ن ض) عَلَمًا. نشان لگانا۔ عَلِمَ
 الشَّيْءَ: ہونٹ چیرنا۔
 عَلِمَ (س) عَلِمًا الرَّجُلُ: حقیقت علم کو پالینا۔
 الشَّيْءَ: پچھانا۔ یقین کرنا۔ الشَّيْءَ وَبِهِ:
 جاننا۔ ادراک کرنا۔ الْأَمْرُ: مضبوط کرنا۔
 عَلِمَ (س) عَلِمًا اوپر کا ہونٹ پھٹنا۔ صفت
 أَعْلَمُ۔
 عَلِمَتْهُ تَغْلِيظًا وَعِلَامًا الصَّنْعَةَ وَغَيْرَهَا:
 سکھانا۔ عَلِمَ لَهُ عَلَامَةٌ: پچھاننے کے لئے
 علامت مقرر کرنا۔
 أَعْلَمَتُهُ الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ: بتا دینا۔ اطلاع دینا۔
 أَعْلَمَ الْقَوْمَ: لڑائی میں رنگے ہوئے اون کا
 نشان۔ گھوڑے پر لگانا۔ الثَّوْبُ: کپڑے پر
 نشان بنانا۔ نقش و نگار کرنا۔ نَفَسُهُ: لڑائی
 کی علامت لگانا۔ عَلِيٌّ كَذَابٍ مِنَ الْكِتَابِ
 وَغَيْرِهِ: علامت لگانا۔
 عَلَمَةٌ: علم میں غلبہ کرنا۔
 تَعَلَّمَ: سیکھنا۔ الْأَمْرُ: مضبوط کرنا۔ اور
 تَعَلَّمَ صِنْتَ أَمْرٍ عَلِمَ كَيْفَ مَعْنَى مَسْئَلَةٍ:
 اِعْتَلَمَ: المَاءُ: پانی ہرنا۔ الشَّيْءَ: جاننا
 البُرْقُ: پہاڑ میں بجلی کا چمکانا۔
 تَعَلَّمَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ: جاننا۔
 اِسْتَعْلَمَتُهُ الْخَبْرَ: خبر دریافت کرنا۔
 العَلَمُ: کپڑے کا نقش۔ جھنڈا۔ قوم کا سردار۔
 جِ عَلَامٍ: العَلَمُ: راستہ کا نشان۔ اونچا پہاڑ۔
 علامت نشان۔ منارج اعلامہ و علام۔
 العَلَمُ: مہ۔ حقیقت شی کا ادراک۔ یقین و
 معرفت جِ عَلُومٍ۔
 عَلَامٌ: علی حرف جر اور ما استفہامیہ سے مرکب
 ہے اور الف حذف کروا گیا ہے۔
 العَلَامَةُ: نشان۔ راستہ کا نشان۔ جِ عَلَامٍ و
 عَلَامَاتٍ۔
 العَالِمُ: ساری مخلوق۔ ماسوی اللہ۔ جِ عَوَالِمٍ و
 عَالَمُونَ و عَالِمٍ۔
 العَالِمُ: فَا۔ جِ عَلَامٍ و عَالِمُونَ ()
 و العَالِمِ: موصوف بالعلم جِ عَلَمًا۔
 العَالِمُ و العَالِمَاتُ و العَالِمَةُ و العَالِمَةُ مَالِدَةٌ

فِي هَذَا الْأَمْرِ عِلَاقَةٌ: یعنی مجھ کو اس معاملہ سے
 تعلق ہے۔
 العِلَاقَةُ: ہانڈی وغیرہ لٹکانے کی چیز۔ جِ عَلَاقِيقٍ۔
 العَلُوقُ: مصیبت۔ موت۔ ہر وہ جس کا انسان
 سے تعلق ہو۔ بہت چھیننے والا۔ رانی پلائی۔
 العَلُوقِي: بھوت۔ چھلاوہ۔ کتیا۔ بھیڑیا۔ بھوک۔
 ذم۔
 العَلِيقُ: جانوروں کا چارہ جیسے جو وغیرہ۔
 العَلِيقِيُّ و العَلِيقِيُّ: ایک قسم کی گھاس جو
 درخت پر پلتی ہے اور اس کا پھل توت کے مانند
 ہوتا ہے۔
 التَّغْلِيظَةُ: کتاب کا ماثیہ۔ جِ تَعَالِيْقٍ۔
 الْمُعْلَقَةُ: مؤنث معلوق۔ وہ عورت جس کا شوہر
 غائب ہو گیا ہو اور کچھ پتہ نہ چلا۔
 الْمُعْلَقَاتُ: زمانہ جاہلیت کے سات تصادم میں
 جن کو کعبہ میں آویزاں کیا گیا تھا اسی وجہ سے ان کو
 معلقات کہتے ہیں۔
 الْمُعْلَقُ: پیالہ جس کو سوار اپنے ساتھ لٹکانے
 رہتا ہے۔
 الْمُعْلَقُ: زبان۔ ہر وہ چیز جس سے لٹکایا جائے۔
 جِ مَعَالِيْقٍ و رَجُلٌ مُعْلَقٌ: جھگڑاؤ۔
 عوام کے نزدیک (معلوق) کا اطلاق ذبیحہ کے
 پھینچنے، بکر، بول پر ہوتا ہے اور فصیح
 (سُخَاوَةٌ) ہے۔
 عَلَقَمَ الشَّيْءَ: کڑوا ہونا۔ الطَّعَامُ:
 کھانے میں کڑوی چیز ڈالنا۔
 العَلَقَمُ: اندرائن۔ مٹھل۔ ہر کڑوی چیز۔
 عَلَقَ (ن ض) عَلَقًا. العِلْمُ و نَحْوَهُ: چنانا
 ناپتہ۔ و انت پتہ۔
 عَلَقَ الْجِلْدُ: کمال کی اچھی طرح سے وباغت
 کرنا۔ يَنْدِيهِ عَلِيٌّ مَالِيَهُ: بجل کی وجہ سے
 ہاتھ روک لینا۔
 الْعِلْمُ ہر گوند جو چھایا جائے۔ جِ عَلُوكِ و
 أَعْلَاكِ: ایک گلے کے کوالعِلْمَةُ کہتے ہیں۔
 الْعِلْمَةُ: وہ زمین جو پانی کے قریب ہو۔
 الْعَلِكُ: لیس دار چیز جو ہاتھوں سے چمت
 جائے۔
 الْعَلَاكُ و الْعَلَاكُ: جو چیز چبائی جائے۔

عَلِقَ الرَّجُلُ: گلے میں جو تک لٹکایا جائے۔ جس کو
 لٹکایا جائے اس کو معلوق کہتے ہیں۔
 عَلِقَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ و عَلَيْهِ و مِنْهُ: لٹکانا
 الْأَمْرُ: چمت جانا۔ النَّبَابُ:
 دروازہ بند کرنا۔ بَابًا عَلِيٌّ ذَارِيهِ: دروازہ لگانا۔
 عَلَقَهُ: بول کا مالک ہونا۔
 أَعْلَقَ الرَّجُلُ: جو تک لگانا۔ الْقَوْمُ:
 کمان کو لٹکانے کے لئے علاقہ بنانا۔
 الصَّائِدُ: شکاری کے جال میں شکار کا پھٹنا
 ظَفَرُهُ بِالشَّيْءِ: ناخن چبھو رہنا۔
 الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: لٹکارنا۔
 تَعَلَّقَ الشَّيْءُ: لٹکانا۔ الشُّوْكُ
 بِالْقَوْبِ: کانٹے کا کپڑے سے اٹھنا۔
 الصَّبِيْدُ بِالْحَبَالَةِ: شکار کا جال میں پھٹنا ()
 و اِسْتَعْلَقَ: فَلَانَا وَبِهِ: محبت کرنا۔
 الْعَلُوقُ: مہ۔ اور کہا جاتا ہے "فِي ثَوْبِهِ عَلُوقٌ"
 یعنی اس کے کپڑے میں کسی چیز کے اٹھنے سے
 پھٹن ہے () و العَلُوقُ: ہر چیز کا ٹیس۔ تھیلا۔
 جِ أَعْلَاقٍ و عُلُوقٍ: کہا جاتا ہے "هُوَ عَلِقٌ
 عِلْمٌ" یعنی وہ علم کا شائق ہے۔
 الْعَلُوقُ: مہ۔ خون۔ ہاتھ سے پھینٹنے والی مٹی لٹکائی
 ہوئی چیز۔ درخت کا وہ حصہ جہاں جانور پہنچ سکے۔
 جو تک و احد عَلَقَةٌ۔
 الْعَلَقَةُ: لٹکانے کی نوعیت۔ بغیر آستینوں کے
 قمیص۔ بہترین کپڑا۔
 الْعَلَقَةُ: درخت کا وہ حصہ جہاں جانور پہنچ
 سکے۔ وہ چیز جس کو کھانے سے پہلے بول ہلاوے کے
 طور پر کھائیں۔ تھوڑی سی چیز۔ تعلق جِ عَلِقُ: کہا
 جاتا ہے "لِي فِي هَذَا الْمَالِ عِلَاقَةٌ" یعنی مجھ کو
 اس مال سے تعلق ہے "لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ عِلَاقَةٌ"
 اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔
 الْعَلُوقُ: موت۔ جماعت کثیرہ۔ اشغال۔
 الْعَلَاقُ: درخت کا وہ حصہ جس کو جانور پاسکے
 وہ چیز جس کو کھانے سے پہلے بول ہلاوے کے
 طور پر کھائیں۔
 الْعِلَاقَةُ: مہ۔ دوستی۔ دشمنی۔ موت۔ گزر بسر کا
 ذریعہ جس کا انسان سے تعلق ہو جیسے مال زوجہ
 اولاد۔ تعلق۔ محبت۔ جِ عَلَاقِيقٍ: کہا جاتا ہے "لِي"

کے صیغہ بہت زیادہ جاننے والا۔

الغلام والغلام۔ شکرہ۔ باز۔

الغلامیۃ۔ سبک روح۔ تیز فہم۔

العلم۔ علم۔ عالم۔

الاعلم۔ اسم تفضیل۔ وہ شخص جس کے اوپر کا

ہوٹ پھنا ہوا ہو۔ مؤنث علماء ج علم

العلماء زہرہ۔

الاعلومة۔ علامت۔ ج اعلیٰم۔

العلمۃ والعلیمة۔ اوپر کے ہوٹ میں بچپن۔

العلم۔ سمندر۔ بہت پانی کا کنواں۔ مینڈک

موتا۔ نازک بدن () والغیلام) نریجوج

غیالیم وغیالیم۔

المعلم۔ راستہ کی نشانی۔ معلم الشئ چیز

کے پائے جانے کی جگہ۔ ج معالم۔ کہا جاتا ہے

”عَفِیَتْ مَعَالِمُ الطَّرِيقِ“ راستہ کی نشانیاں مخفی

ہو گئیں۔

المعلومیۃ۔ معلوم کی طرف نسبت۔

العلماء والعلیماۃ۔ جس پر دھاگے کا گولہ

بٹایا جائے۔ ج علامیۃ وغلامیۃ۔

عَلَنَ (ان ض) و عَلَنَ (ک) و عَلِنَ (س) عَلَنًا

وَعَلَانِيَةً و عَلُونًا وَاغْتَلَنَ وَاِسْتَعْلَنَ الْأَمْرُ

ظاہر ہوا۔ صفت عالِنٌ و عَلِنٌ و عَلَيْنٌ۔

عَالَنٌ مُعَالِنَةٌ و عَلَانًا وَاَلْعَادَاؤُةُ وَاَلْبَعْدَاؤُةُ

کھلم کھلا دشمنی کرنا۔

عَالِنَةٌ وَاَعْلَنَةُ الْأَمْرُ وَاَلْمَرُ وَاَعْلَنَةُ إِلَيْهِ

ظاہر کرنا۔

اِسْتَعْلَنَ. الْأَمْرُ وَاَلْمَرُ وَاَلْمَرُ. ظاہر کرنے کے

درپے ہونا۔

العَلَانِيَةِ۔ مہ۔ کھلم کھلا۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ

عَلَانِيَةٌ“ یعنی اس کا مرام ظاہر ہے۔ ج عَلَانُونٌ۔

العَلَانِيٌّ۔ وہ شخص جس کا معاملہ ظاہر ہو۔ ج

عَلَانِيُونٌ۔

العَلَنَةُ جو شخص اپنے راز کو پوشیدہ نہ رکھے۔

عَلِيَّةٌ (س) عَلِيًّا۔ متمم ہونا۔ تعمیر ہونا۔

دہشت زدہ ہونا۔ بھوکا ہونا۔ قابل ملامت ہونا۔

گھبراہٹ سے آنا جانا۔ بد فطرت ہونا۔ صفت مذکر

عَلِيَّانٌ ج عَلِيَّاهُ صفت مؤنث عَلِيَّاهُ ج

عَلِيَّاهُ۔

الغلبہ۔ وہ شخص جس کا نفس شرارت پسند ہو۔ وہ

فخص جو تمہیر ہو کر آئے جائے۔

العالمہ۔ شتر مرغ۔ عورت جو ایک راستہ پر نہ

چلے۔ مختلف قسم کے ارادے کرے۔

العلمہ۔ مہ۔ برائی۔ غم۔

عَلَا يَعْلُوْنَ عَلُوًّا وَاَعْلَى عَلَاةٌ وَاَعْتَلَى

الشئ او التَّهَارُ۔ بلند ہونا۔ عَلَا الزَّجَلُ۔ غالب

ہونا۔ عَالِي الشَّيْءِ۔ گوارا سے مارنا۔

الصَّكَّانَ وَاَبِهَ جَرَهَانَا۔ الدَّابَّةُ۔ جانور پر سوار

ہونا۔ عَلَا فِي الْأَرْضِ۔ تکبر کرنا۔ عَلَا بِهِ۔ بلند کرنا

الْأَمْرُ وَاَلَةُ۔ طاقت رکھنا۔ صفت عَلِيٌّ

بِالْأَمْرِ۔ مشتعل ہونا۔ قَزَنَهُ۔ ہسر پر غالب آنا۔

عَلَبَ الْعَيْنَ عَنْ فُلَانٍ۔ کسی سے نگاہ کاٹنا موافق

ہونا۔ عَلَاو عَلِيٌّ فِي الشُّكْرِ أَمْ دَرَجَةٍ فِي بَلَدٍ

ہونا۔ اِعْتَلَى الشَّيْءُ۔ فوی ہونا۔ غالب ہونا۔

عَلِيٌّ وَاَعْلَى الشَّيْءِ۔ چڑھنا۔

عَلِيٌّ وَاَعْلَى وَاَعْلَى الشَّيْءِ۔ بلند کرنا۔ عَلِيٌّ

الْكِتَابِ عَمَّا نَ لَكُنَا۔ عَلِيٌّ وَاَعْلَى الْمَنَاعِ عَنِ

الدَّابَّةِ۔ اِتْرَا۔ عَلِيٌّ اللَّهُ فُلَانًا۔ اللہ کا کسی کو بلند

کرنا اور عالی مرتبہ بنانا۔ عالی الشئ و بہ۔ چڑھنا۔

کہا جاتا ہے عَلِيٌّ عَيْنِي یعنی مجھ سے ڈور ہو۔

تَعَلَّى الزَّجَلُ۔ آہستہ آہستہ چڑھنا۔ تَعَلَّتْ

الْمَرْأَةُ مِنْ مَرْحَبِهَا۔ صحت پانا۔

تَعَالَى۔ بلند ہونا۔ تَعَالَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَرْحَبِهَا۔

صحت پانا۔ ”تعال“ آجا۔ (فعل امر)

اِسْتَعْلَى التَّهَارُ۔ بلند ہونا۔ عَالِبٌ ہونا

() وَاَعْلُوْلِي الشَّيْءِ۔ چڑھنا۔

عَلٌّ۔ اسم ہے بمعنی فوق۔ جب معرفہ ہو تو ”مِنْ

عَلٍّ“ یعنی علی الفہم اور نکرہ کی صورت میں ”مِنْ

عَلٍّ“ کہا جاتا ہے اور ”اَتَيْتُهُ مِنْ عَلٍّ“ بھی کہا جاتا

ہے۔

العلا والغلی۔ بلندی۔ شرافت۔

الغلی والغلیۃ۔ بلند جگہ۔ کہا جاتا ہے ”هَمْ

عَلِي الْقَوْمِ“ یعنی وہ لوگ قوم کے سردار ہیں۔

عَلُو الشئ و عَلُوَةٌ وَاَعْلُوَةٌ وَاَعْلُوَةٌ۔ بلندی۔

کہا جاتا ہے ”اَخَذَهُ عَلُوًّا“ یعنی اس نے اس کو

زبردستی لے لیا۔

العلاوة مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہر چیز میں سے زیادہ

بوجھ لاوانے کے بعد جو لٹکایا جائے۔ سراگردن کا

اوپر کا حصہ ج عَلَاوِيٌّ وَاَعْلَاوِيٌّ۔ کہا جاتا ہے

اَعْلُوْتِكَ اَلْفُ دِيْنًا وَاَدِيْنًا وَاَعْلَاوَةٌ۔ میں نے

تمہ کو ہزار دینا روپیے اور ایک دینا رازا دیا۔

العلاۃ۔ نمائی۔ بلند اونٹنی ج عَلَوَاتٌ وَاَعْلَا۔

العلیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے

ایک نام۔ بلند۔ شریف۔ سخت ج عَلِيُّونٌ وَاَعْلِيَّةٌ۔

کہا جاتا ہے ”هَمْ عَلِيَّةُ الْقَوْمِ“ یعنی وہ قوم کے

سردار اور اشراف ہیں۔

العلیٰ۔ بلندی۔

العَلُوِيٌّ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب نسبت۔ ج

عَلُوِيَّةٌ۔

العلیۃ والعلیۃ۔ بالا خاندن ج عَلَالِيٌّ۔ کہا جاتا

ہے ”هُوَ مِنْ عَلِيَّةٍ قَوْمِهِ وَاَعْلِيَّةِهِمْ وَاَعْلِيَّةِهِمْ وَاَعْلِيَّةِهِمْ“

یعنی وہ اپنی قوم میں صاحب رفعت و

شرف ہے۔

العالی فَا رَجُلٌ عَلِيٌّ الْكُتُبِ۔ شریف۔ کہا

جاتا ہے ”اَتَيْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ“ یعنی میں اس کے پاس

اوپر سے آیا۔

العالیہ۔ مؤنث عالی۔ نیزے کا اوپر کا حصہ یا

نیزے کا نصف اعلیٰ ج عَلَائِيَّاتٌ وَاَعْوَالٌ۔

العَوَالِيُّ نیزے۔ العَوَالِيُّ۔ مدنی طیبہ کے اورد

گرد کے گاؤں اور اُن کی طرف جب نسبت

کرتے ہیں تو عَلِيٌّ وَاَعْلِيٌّ کہتے ہیں۔ عالیۃ

الشئ چیز کا بلند حصہ۔ عالیۃ الزوادی وادی کا وہ

حصہ جہاں سے پانی گری۔

الاعلیٰ اسم تفضیل۔ زیادہ بلند۔ کہا جاتا ہے

”هُوَ اَعْلَىٰ بِهِمْ عَيْنًا“ یعنی وہ لوگوں کے احوال و

کوائف کا زیادہ دیکھ بھال کرنے والا ہے مؤنث

عَلِيَّانٌ عَلِيٌّ۔

المفتعلی۔ شیر۔

العَلِيَّانُ وَاَعْلِيَّانُ۔ ہر بلند جگہ۔ کہا جاتا ہے حَفَّةٌ

عَلِيَّانٌ وَاَعْلِيَّانُ الْعَلِيَّانُ۔ پہاڑ کی چوٹی۔ آسمان۔

العَلِيُّونُ۔ اعلیٰ جنت کا نام اور یہ جمع علیٌّ کی

ہے وہ لوگ جو شہر کے بلند حصوں میں رہیں۔ اور

تو اگر اور اہل شرافت کو ”اہل عَلِيَّيْنِ“ کہتے ہیں۔

پست درجے کے لوگوں کو ”مَسْفَلِيُونُ“

العَلِيَّانُ وَاَعْلِيَّانُ۔ مونا لہیا۔ کہا جاتا ہے

”رَجُلٌ عَلِيٌّ وَامْرَأَةٌ عَلِيَّانٌ“ زبجو۔
 العليان والعليان۔ بلند آواز۔
 العليان۔ کتاب کا عنوان۔
 المغلاة۔ شرف و بلندی کا تعال۔
 المغلّی۔ جوئے کا ساتواں تیر۔
 الحُرُوفُ الْمُسْتَعْلِيَّةُ خ۔ ص ض ط ظ غ۔

ق۔
 عَلَوْنَ عَلَوْتَهُ وَعَلَوْنَا الْكِتَابَ: خط پر پڑے
 لکھا۔

عَلَوْنَا الْكِتَابَ: سرنامہ۔
 عَلِيٌّ يَغْلِي عُلْيَا وَعُلْيَا السَّطْحُ: چڑھتا۔
 العلی والعلی والغلی والغلیاء والعلیان
 والعلیان والغلیاء والعلیة والعلی والعلی۔
 مادہ عل وعلی ذکر ہو چکا۔

علی۔ حروف جر میں سے ہے۔ مندرجہ ذیل
 معانی میں مستعمل ہے۔
 (۱) استلاء: جیسے حَمِلَ عَلَيَّ الذَّابَّةَ (جانور پر
 لادا گیا)

(۲) مصاحبت: جیسے بَدَّلَ الْمَالَ عَلَيَّ الْفَقْرَ:
 (مال کو باوجود فقر کے خرچ کیا۔)

(۳) مجاوزہ: بمعنی عَنْ جیسے رَضِيَ عَلَيْهِ أَيْ
 رَضِيَ عَنهُ یعنی وہ اس سے راضی ہوا۔

(۴) تعلیل: جیسے عَلَامٌ تَضْرِبُنِي (کس وجہ سے
 تم مجھ کو مار رہے ہو۔)

(۵) ظرفیت: جیسے دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَيَّ حِينِ
 غَفَلَةٍ (شہر میں غفلت کے وقت میں داخل ہوا۔)
 (۶) موافقت باء: جیسے اِزْكَبَ عَلَيَّ اِسْمُ اللّٰهِ
 (اللہ کے نام سے سوار ہو۔)

(۷) استدراک: جیسے عَلِيٌّ اِنْ قُرْبَ الدَّارِ خَيْرٌ
 مِنَ الْبُعْدِ (لیکن گھر کا قرب دُوری سے بہتر ہے۔)

(۸) اور بھی فوق کے معنی میں اسم جو مستعمل
 ہے اور یہ اس وقت جبکہ من کے بعد ہو جیسے اَقَامَ
 مِنْ عَلِيٍّ جِنَاحَ الْهَيْكَلِ (وہ ہیکل کے بازو پر
 کھڑا ہوا) اور کہا جاتا ہے عَلِيٌّ كَذَاوِ بَكْدَ اَيْ
 مجھ کو اتا دو۔ عَلِيَّكَ زَيْدًا۔ یعنی زید کے ساتھ
 لازم رہو عَلِيَّكَ بَكْدًا۔ یعنی فلاں چیز کے ساتھ
 تمسک کرو۔ اور یہ اس صورت میں اسم فعل ہوتا
 ہے۔

عَمَّ (ن) عَمُّوْنَا الشَّيْءَ: عام ہونا
 الْمَطَرُ الْأَرْضَ: بارش کا ساری زمین کو عام ہونا
 عَمَّا الْقَوْمَ بِالْعَطِيَّةِ: سب کو شامل کرنا
 عَمومہ، بچا ہونا۔
 عَمَّزَ أَسْئَةً عَمَّاوِ عَمَّ: بگڑی پینا جانا۔
 عَمَّمَ الرَّجُلُ: سردار بنانا جانا۔
 أَعَمَّ: معزز چوں والا ہونا۔

عَمَّمْ۔ عام کرنا _____ ہ: عمامہ: بندھوانا
 _____ ہ: الأَمْرُ: کسی امر کا فائدہ ڈالنا۔

إِعْتَمَّ وَتَعَمَّمَّ وَاسْتَعَمَّ: عمامہ باندھنا۔ کہا جاتا
 ہے اِعْتَمَّ الشَّابُّ: طویل ہو گیا۔ ”تَعَمَّمَتِ
 الْأَكَامُ بِالْبَيْتِ“ نیلے نایات سے بھر گئے۔ گویا کہ
 عمامہ جیسا معلوم ہوتا ہے۔ تعممہ۔ بچا کر کے
 پکارنا۔ اِسْتَعَمَّ: بچانا۔

العَمَّ: مع۔ جماعت کثیرہ۔ بچا ج عَمُومَةٌ و
 أَعْمَامٌ وَأَعَمَّ۔ اور نسبت کے لئے عَمُومِيٌّ
 _____ والعَمُّ لِبِ لِبِ كَجُورِ كَرِخْتِ۔
 العَمَّةُ: بیوی کا عَمَّات۔
 العَمَّةُ: عمامہ باندھنے کی بیعت۔

رَجُلٌ عَمِيٌّ عام۔
 العَمَمُ: جسم کا کمال۔ جوانی اور مال و غیرہ کا کمال۔
 العَمَمُ: کثرت۔ اجتماع۔ عامہ کا اسم جمع ہر معاملہ
 کا عام و شامل۔ رَجُلٌ عَمَمٌ كَامِلُ الْعَقْلِ: کامل
 الخیر۔ کہا جاتا ہے ”اِسْتَوَى فَلَانٌ عَلَيَّ عَمَمِهِ“

العَمُوم۔ مع۔ عمومیت۔ شمولیت اور نسبت
 کیلئے عمومی۔
 العمامة۔ بگڑی۔ خود کا وہ حصہ جو سر کے برابر
 کر نوٹی کے نیچے پہنا جاتا ہے ج عَمَانِيْمٌ و عَمَامُ۔
 کہا جاتا ہے ”أَزْخِي عَمَامَتَهُ“ وہ خوش حال
 ہو گیا۔ العمامة: قحط۔ کال۔ قیامت۔
 العَامَّ: سب کو شامل ہونے والا۔ خلاف خاص۔

العامة۔ مؤنث عام۔ عَامَّةُ النَّاسِ: عام لوگ ج
 عَوَامٌ۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ الْقَوْمُ عَامَّةً“ یعنی قوم
 ساری کی ساری آئی۔

العَمِيْمُ: ہر وہ چیز جو انھیں ہو اور کثرت ہو۔ قوم کا
 خالص۔ ہر چیز کا کال ج عَمَمُ۔
 العَمِيْمَةُ مِنَ النِّسَاءِ: پورے قد کی لمبی ترنگی
 عورت۔ نَخْلَةٌ عَمِيْمَةٌ: لمبا کھجور کا درخت۔ ج

عَمَّ۔
 الاعمَّ۔ اسم تفضیل۔ جماعت کثیرہ۔ موٹا۔
 المِعْمُ۔ مخیر عام فیض والا۔
 المِعْمَمُ۔ سردار جس کو قوم نے مقتدی مان لیا
 ہو۔

العَمْبَرُ۔ عَمْبَرُ۔
 عَمَّتْ (ض) عَمَّتَاوِ عَمَّتَ الصُّوْفُ: اون
 کی بیوی بنانا۔ عَمَّتَهُ: مغلوب کرنا۔ مقصد سے ہٹا
 دینا۔ اندھا ہند لاشی سے مارنا۔

رَجُلٌ عَمِيْتٌ۔ ظریف و لاوار۔ عالم زیرک۔
 العَمِيْتُ: تمہان۔ سمجھ دار ظریف۔ مدہوش۔
 وہ شخص جو اپنی مجال میں کسی جہت کی ہدایت نہ
 پائے۔ ج عَمَاوِيْتُ۔

العَمِيْتَةُ۔ اون کی بیوی ج عَمَانِيْتٌ و عَمَّتْ
 وَأَعْمَتُهُ۔
 عَمَجَ (ض) عَمَجًا پانی میں تیرنا _____ فِی
 شَبْرِهِ و دُوْنَا _____ وَتَعَمَّجَ السَّيْلُ او
 الحَيَّةُ: بچا رہنا۔

العَمَجُ و العَمَّجُ و العَوَمَجُ۔ سانپ۔
 عَمَدٌ (ض) عَمَدًا۔ السَّقْفُ: چھت میں
 ستون لگانا _____ لِلشَّيْءِ وَالنَّيِّ السَّيْءُ: قصد
 کرنا _____ اِلَى الرَّجُلِ کسی کا ارادہ کرنا
 _____ الشَّيْءُ: گرانہ _____ ہ: ستون سے مارنا
 _____ هُ الْمَرْضُ او الْأَمْرُ: دبا کرنا۔ تکلیف
 پہنچانا _____ وَعَمَدٌ الْوَلَدُ: پتھر دینا۔ عَمَدٌ
 السَّيْلُ: بند لگانا۔

عَمِدٌ (س) عَمَدًا۔ عَلِيٌّ: عُفِينَاك ہونا۔ یہ
 لازم ہونا _____ الْقَوِيُّ: تر کرنا _____ مِنْهُ:
 تعجب کرنا _____ فَلَانٌ: دردمند ہونا۔ کہا جاتا
 ہے ”عَمَدَتْنِي الْأَمْرُ فَعَمِدْتُ“ یعنی معاملے
 نے مجھے دردمند کر دیا اور میں دردمند ہوا۔

أَعَمَدَ الشَّيْءُ: ستون لگانا۔
 تَعَمَّدَ الْأَمْرُ: قصد کرنا _____ وَاِعْتَمَدَ
 پتھر کرنا۔ اِعْتَمَدَ الْحَائِظُ و عَلِيَّ الْحَائِظُ:
 دیوار پر ٹیک لگانا۔ اِعْتَمَدَهُ وَاِعْتَمَدَ عَلَيِّهِ:
 بھروسہ کرنا۔ کہا جاتا ہے اِعْتَمَدَ لَيْلَةَ رَاتٍ مِثْلِ
 سوار ہو کر جانا۔

اِنْعَمَدَ الشَّيْءُ: ستون کے بل کھڑا ہونا۔

العقد۔ مہ کہا جاتا ہے "فَعَلَّةٌ عَمْدًا وَعَنْ عَمْدٍ" جان بوجھ کر کیا۔ "وَفَعَلَةٌ عَمْدٌ عَيْنٌ وَعَمْدًا عَلَى عَيْنٍ" اس نے اس کو کوشش اور یقین کے ساتھ کیا۔
العقیدہ۔ وہ جگہ جس کو بارش نے تر کر دیا ہو کہا جاتا ہے "هُوَ عَمِيدُ الثَّوِي" یعنی وہ بڑا فیاض ہے۔

العفدۃ۔ جس پر نیک لگائی جائے۔ جس پر بھروسہ کیا جائے۔ لشکر کا پٹیا بزرگ عہد۔
العقاد۔ جس کا سارا ریا جائے عہد و عہد
بلند عمارتیں۔ واحد۔ العِمَادۃ۔ اور یہ عَمَدُ الْوَلَدِ (یعنی پتھر دینا) سے اسم ہے۔ لشکر کا پٹیا
بر۔ اَهْلُ الْعِمَادِ۔ بلند عمارتوں والے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ طَوْنُ الْعِمَادِ" فلاں کا مکان زائرین کے لئے علامت ہے "هُوَ زَيْفُ الْعِمَادِ" وہ شریف آدمی ہے۔

العُمُود۔ ستون۔ سہارا۔ لوہے کا ڈنڈا
أَعْمِدَةٌ وَعَمْدٌ وَعَمْدٌ الْعُمُودُ: سردار۔ لشکر کا پٹیا بزرگ جو جگہ کو سیراب کرتی ہے۔ کان کا بڑا حصہ۔ سخت غمزہ۔ عُمُودُ الْبَطْنِ: پیٹھ۔ کہا جاتا ہے "صَرَبَتْهُ عَلَى عُمُودٍ نَظِيهٍ" یعنی اس کی پیٹھ پر بار۔ عُمُودُ الْمَجِيَانِ ترازو کی ڈنڈی۔ عُمُودُ الصَّبْحِ صبح کی روشنی۔ عُمُودُ النَّسَبِ جو خط مستقیم پر ہو۔ کہا جاتا ہے "إِسْتَقَامُوا عَلَى عُمُودِ رَبِّهِمْ" یعنی ایسے طریقہ پر کہ جس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اَهْلُ الْعُمُودِ وَأَهْلُ الْعَمْدِ: وہ لوگ جو خاندان پرورش ہوں۔ الْعُمُودُ وَالْحَقُّ الْعُمُودِي عِنْدَ الْمُهَنْدِسِينَ وہ خط جو دوسرے خط پر قائم ہو جس کے دونوں جانب دو زاویے برابر نکلیں۔

بیت عمودی یا خط عمودی۔
العامد۔ فَا مَوْنُثٌ عَامِدَةٌ لِئَلَّا عَامِدَةٌ لِبِسِ رات۔

العقیدہ۔ سخت غمزہ۔ وہ شخص جس کو عشق نے شکست دل کر دیا ہو۔ عَمِيدُ الْقَوْمِ: قوم کا سردار۔
عَمْدَاءُ عَمِيدِ الْأَمْرِ: قوم امر۔ عَمِيدُ

الْوَجْعُ: درد کا مقام۔ الْعَمِيدُ وہ مریض جو اپنی بیماری کی وجہ سے بیٹھے کی حالت نہ رکھتا ہو اور اسے کھینوں کا سہارا لگایا جاتا ہو۔

الْمَعْمُودِيَّةُ۔ پتھر۔
الْعُمُودُ الْعَمْدَانِي۔ کامل ترین نوجوان۔
الْعَمِيدُ۔ نازک بدن لڑکا۔

عَمْرٌ (ان) عَمْرًا۔ المنزِلُ بابلہ: آباد ہونا
الْمَنْزِلُ: آباد کرنا۔ صفت مفعولی مَعْمُودٍ
الْدَّارُ كَمَرٍ تَعْمُرُهَا۔ اور اسم العمارہ ہے
بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ _____ وَ اللّٰهُ
زندہ رکھنا۔ عَمَارَةٌ (اللّٰهُ مَنَزَلَهُ: آباد کرنا۔
عَمْرٌ (ض) (ون) عَمْرًا وَعَمَارَةٌ وَعَمْرَانًا
الرَّجُلُ يَنْتَهِي لِأَمْرٍ كَمَرًا۔ عَمْرُهُ كَذَا: زندگی بھر کیلئے دینا) _____ عَمْرًا وَعَمَارَةٌ رَيْبَةٌ: عمارت کرنا۔ خدمت کرنا۔ روزہ رکھنا۔ نماز پڑھنا۔ _____
عَمْرًا وَعَمْرًا وَعَمَارَةٌ وَعَمْرٌ (س) عَمْرًا
عَمْرًا وَعَمَارَةٌ لِبِسِ عَمْرَانًا _____ وَعَمْرًا (ك) او
عَمْرٌ (س) عَمَارَةٌ الْمَالُ۔ مال بہت زیادہ ہونا۔

عَمْرٌ وَأَعْمَرُ أَرْضًا: زندگی بھر کیلئے دے دینا۔ عَمْرٌ
الرَّجُلُ: لِبِسِ زَنْدِجًا يَأْتِي عَمْرَةَ اللّٰهِ: زندہ رکھنا۔
عَمْرٌ الْقَرْبُ۔ کپڑے کو اچھا بنانا۔ جب تم کسی کو اللہ کی قسم دیتے ہو کہ فلاں کا کام عمر بھر کرے تو کہتے ہو۔ أَعْمَرَكَ اللّٰهُ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا۔ أَعْمَرَهُ
الْمَكَانَ: آباد کرنے کیلئے دینا۔ أَعْمَرَ الْأَرْضَ:
آباد بنا۔ أَعْمَرَ عَلَيْهِ: غنی کرنا۔

إِعْتَمَرَ الْمَكَانَ: قصد کرنا۔ زیارت کرنا۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فَلَانٌ مُّعْتَمِرًا" فلاں زیارت کرنے کے لیے آیا "اتَّخَذْنَا نَادِيًا تَعْتَمِرُهُ" ہم نے ایک مجلس بنائی جس میں بیٹھتے ہیں۔ اِعْتَمَرَ الرَّجُلُ: پگڑی باندھنا۔

إِسْتَعْمَرَ فِي الْمَكَانِ: آباد کرنا۔ جیسے
إِسْتَعْمَرَ اللّٰهُ عِبَادَةَ فِي الْأَرْضِ: یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو زمین میں آباد کرنا چاہا۔

العمر۔ زندگی راج اعتمار۔ دین۔ اور قسم میں کہا جاتا ہے "لَعَمْرِي" وَلَعَمْرُ اللّٰهِ وَأَعْمَرَ اللّٰهُ۔
العمر: دونوں کے درمیان کا گوشت۔ ج عَمُور۔
العَمْرَانِ: حلق کے کوئے کے دونوں طرف لٹکا ہوا گوشت۔

ہوا گوشت۔

العمر والعمر۔ زندگی۔ عربوں کے نزدیک عمر کا اندازہ چالیس سال کا تھا۔ العمر: مسجد بزرگ۔
دانتوں کے درمیان کا گوشت۔ مسوڑھا۔

عمر۔ علم ہے اور عیلت و عدل کی وجہ سے غیر منحرف ہے۔ خلیفہ ثانی کا نام ہے۔ العمران:
سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما۔

عمر و۔ علم ہے۔ اور اس میں حالت رفیع و جری میں خلیفہ ثانی کے نام سے امتیاز کیلئے داؤ لگایا جاتا ہے۔ ج عَمُورٌ وَأَعْمُرٌ وَعَمُورٌ أُمَّ عَمْرٍو: بیچو کی کنیت۔

العمران۔ آبادی۔
العمر۔ مہ۔ دین۔ عورتوں کے سر ڈھانکنے کا روال۔

العفدۃ۔ ہر وہ چیز جو سر پر نہی جائے جیسے تاج، پگڑی وغیرہ۔ أَبُو عَمْرَةَ بھوک اور افلاس کی کنیت۔

العفدۃ۔ آباد مکان کا ارادہ۔ اور اصطلاح شرع میں طواف اور سعی بین الصفا والمروة کا نام۔
ج عَمْرٌو عَمْرَات۔

العقار۔ سلام۔ پھول جس سے شراب کی مجلس کو مزین کرتے تھے۔

العقارۃ۔ مہ۔ ہر وہ چیز جو سر پر نہی جائے جیسے تاج، پگڑی وغیرہ۔ مزین کپڑے کا ٹکڑا جو خیمہ میں لگایا جاتا ہے۔ پھولوں کا دست جو بادشاہ کو سلام کرتے ہوئے پیش کیا جائے۔ بڑا قبیلہ۔ قبیلہ۔ جنگی جہازوں کا بیڑا۔

العقارۃ۔ مہ۔ جس سے مکان کی آبادی ہو۔ چھوٹا قبیلہ۔

العقارۃ۔ عمارت کی مزدوری۔
العمری۔ وہ مکان یا زمین جس کو زندگی بھر کے لیے دے دیا جائے۔

مَكَانٌ عَمِيرٌ۔ آباد۔ قُوتٌ عَمِيرٌ: گف کپڑا۔
العایمیر۔ فَا۔ گھر کرنے والا ج عَمَارٌ مَوْنُثٌ

عَامِرَةٌ ج عَوَامِر۔ مَكَانٌ عَامِرٌ: آباد جگہ۔ تم کہتے ہو تَرَكْتُهُمْ عَامِرِينَ بِمَكَانٍ كَذَا: یعنی میں نے ان کو فلاں جگہ میں آباد چھوڑا۔ العایمیر: جو کا پتہ۔ أُمَّ عَامِرٍ: جو۔ عَوَامِرُ الْبَيْتِ: سانپ

<p>بنایا گیا۔</p> <p>أَعْمَلَةٌ - عامل بنانا۔ حاکم بنانا۔ أَعْمَلُ الرُّمَحِ صدر نیزہ سے مارنا۔ الآلَةُ أو الزَّاي: استعمال کرنا۔ الكَلِمَةُ فِي الكَلِمَةِ: کلمے کا دوسرے کلمے پر اثر کرنا۔ الرُّجُلُ: اُجرت دینا۔</p> <p>عَامِلَةٌ مُعَامَلَةٌ: عمل کی تکلیف دینا۔ معاملہ کرنا۔</p> <p>تَعْمَلُ لِكَذَا: عمل کو برداشت کرنا۔ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ او فِي حَاجَتِهِ: کوشش کرنا۔ درپے ہونا۔ تَعَامَلُ القَوْمُ: بعض کا بعض کے ساتھ معاملہ کرنا۔</p> <p>اِغْتَصَلَ: کام میں مضطرب ہونا۔ اِثْرُ قَبُولِ كَرَامَةٍ: اپنے لیے کام کرنا۔</p> <p>اِسْتَعْمَلَهُ: عامل بنانا۔ عمل کرنے کو کہنا۔ اِسْتَعْمَلَ الآلَةَ: آلہ استعمال کرنا۔ الثَّوْبُ: کپڑا استعمال کرنا۔ اُسْتَعْمِلُ فُلَانٌ: شاہی اعمال میں سے کسی عمل کے لیے مقرر ہونا۔ العَمَلُ: مہ۔ الفعل۔ قصد۔ ارادۃ فعل کرنا۔ والعاملية، وہ جس پر عامل والی ہو۔ ج۔ اَعْصَلَ وَاغْصَلَ البَيْدَ: ملک کے مضامین۔ العَمَلُ: کارِیگر۔ پسندیدہ کارِیگر۔ بَرِّقَ عَمِلٌ: لگا لگا چمکنے والی بجلی۔</p> <p>العَمَلَةُ: مؤنث عَمِلٌ: وہ جو کیا جائے۔</p> <p>العَمَلَةُ: ایک مرتبہ کا عمل۔ خیانت۔ چوری۔</p> <p>العَمَلَةُ: عمل کی ہیئت۔ جو عمل کیا جائے۔</p> <p>والعَمَلَةُ: عمل کی اُجرت۔ اور عوام اس کو نقد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔</p> <p>العَامِلُ: فاعل کام کرنے والا۔ وہ شخص جو کسی کے امور میں وغیرہ کاموں میں بوج عَمَالٍ و عَامِلُونَ و عَمَلَةٌ: رئیس۔ والی۔ حاکم۔ عَامِلُ الرُّمَحِ: نیزے کے پھل کے قریب لاحقہ۔</p> <p>العَامِلَةُ: مؤنث عامل ج عَامِلَاتٍ و عَوَامِلُ عَامِلَةُ الرُّمَحِ: نیزے کے پھل کے قریب کا لاحقہ۔ العَوَامِلُ: پاؤں۔ کھیتی اور دائیں کرنے کے تیل۔</p> <p>العَمَالُ: صیغہ مبالغہ۔ مؤنث عَمَالَةٌ۔ العَمَالَةُ: عامل کا پیشہ۔ العَمَالَةُ و العَمَالَةُ</p>	<p>کلام کا اثر کرنا۔</p> <p>عَمَشَ (ن) عَمَشًا: بلا قصد مارنا۔ الوَلْدُ: لڑکے کا نعتہ کرنا۔</p> <p>عَمَشَ و تَعَامَشَ عَنِ الشَّيْءِ: غافل ہونا۔ عَمَشَهُ اللّٰهُ: چندھے پن کو دور کرنا۔ اِسْتَعْمَشَهُ: بیوقوف جاننا۔</p> <p>العَمَشُوشُ: انگور کا خوشہ جس میں سے کچھ دانے کھالیے گئے ہوں۔</p> <p>عَمَطَ (ن) عَمَطًا وَاِعْتَمَطَ عِرْضَةً: عیب لگانا۔ بے آبرو کرنا۔</p> <p>عَمِقٌ (ك) و عَمِيقٌ (س) عَمِيقًا المَكَانُ او الظَّرِيفِيُّ: دور ہونا۔ کشادہ اور لمبا ہونا۔ صفت عمیق ج عمیق و عمیق و عمیق و عمیق:</p> <p>عَمِيقٌ (ك) عَمِيقًا و عَمِيقًا البِنُو و نَحْوَهَا: گہرا ہونا۔ صفت عمیق ج عمیق:</p> <p>أَعْمَقَ و عَمَّقَ وَاِعْتَمَقَ البِنُو: کنوئیں کو گہرا کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَمَّقَ الظَّرِيفِيُّ الأُمُورَ" اس نے امور میں گہری نظر ڈالی۔</p> <p>تَعَمَّقَ فِي الأَمْرِ: معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ فِي كَلَامِهِ: خوب چرب زبانی سے گفتگو کرنا۔</p> <p>العَمَقُ و العَمَقُ و العَمِيقُ: گہرائی۔ العَمَقُ و العَمَقُ: جنگل کے اطراف سے جو بعید ہو۔ ج۔ اَعْمَاقُ:</p> <p>العَمَقُ: حق و استحقاق۔ کہا جاتا ہے "لَهُ فِيهِ عَمَقٌ" یعنی اس کیلئے حق و استحقاق ہے۔</p> <p>العَمَقَةُ: برتن کی تہ میں گہلی کا تیل۔</p> <p>رَجُلٌ عَمِيقُ الكَلَامِ: ایسا شخص جس کی بات بہت گہری ہو۔</p> <p>عَمِلَ (س) عَمَلًا: کام کرنا۔ محنت کرنا۔ لِأَمْرِ عَمِلَ عَلَيَّ بِلَادٍ: عامل بنا۔ حاکم بنا۔ عَلَيَّ الصَّدَقَةُ: صدقہ جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ البَرْقُ: بجلی کا لگا لگا چمکانا۔ عَمِلَتْ الكَلِمَةُ فِي الكَلِمَةِ: ایک کلمہ کا دوسرے کلمہ میں اثر کرنا۔ اِعْرَابُ دِيْنَا:</p> <p>عَمَلَهُ: عمل کی اُجرت دینا۔ ه عَلَيَّ البَيْدُ: عامل بنانا۔ حاکم بنانا۔ کہا جاتا ہے "عَمِلَ فُلَانٌ عَلَيْهِمْ" یعنی فلاں شخص ان کے اوپر حاکم</p>	<p>وغیرہ واحد عامر و عامرة۔</p> <p>العَمِيْرَةُ: شد کا چمکتا۔ بڑا قبیلہ۔ ج عَمَائِرُ۔ العَمَارُ: صیغہ مبالغہ۔ قوی الایمان۔ بروبار۔ صاحب وقار۔ موت تک امر و نہی پر قائم رہنے والا۔ اِنجی تعریف والا۔</p> <p>العَمَارُ: جنات جو مکانات میں رہتے ہیں اور یہ جمع ہے عامری۔</p> <p>المُعَمَّرُ: آباد۔ خوش حال۔ بگ۔</p> <p>المُسْتَعْمَرَةُ: نوآبادی (مولدہ)</p> <p>العَمُورُ: بکری کا پچھلے۔ چھوٹی بھینز ج عَمَائِرُ۔ العَمُورُ: ہر چیز کا لمبا۔ خوش۔ قوی۔ سخت مزاج۔ مرد۔ شیراز۔ بھینزیا۔</p> <p>العَمْرُوسُ: مرد قوی۔ العَمْرُوسُ: بکری کا پچھلے ج عَمَائِرُ۔</p> <p>العَمُورُ: چور۔ سرکش ج عَمَارِطُ و عَمَارِيطُ و عَمَارِطَةٌ۔</p> <p>العَمْرُوطُ: جوان۔ سبک۔ ولیر۔ بلا۔ مصیبت۔</p> <p>عَمَسَ (ن) عَمَسًا الكِتَابُ: مٹا۔</p> <p>الأَمْرُ: دیدہ دانستہ جاہل بنا۔ عَمَسَ وَاَعْمَسَ الشَّيْءُ: چھپانا۔</p> <p>عَمِسَ (س) و عَمَسَ (ك) عَمَسًا و عَمَسًا و عَمُوسًا و عَمَاسَةً: التَّوْمُ: سخت ہونا۔ تَارِكٌ ہونا۔</p> <p>عَامِسَةٌ مُعَامَسَةٌ: راز تانا۔ دہشتی چھپانا۔</p> <p>تَعَامَسَ: تخاصم کرنا۔ عَمَسَ: نہ جانے والا ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَعَامَسَ عَلَيَّ" یعنی اس نے مجھ کو کھا اور مجھ کو شبہ میں رکھا۔</p> <p>العَمَسُ و العَمَاسُ و العَمُوسُ و العَمِيسُ: مشکل کام۔ يَوْمٌ عَمَاسٌ: سخت دن۔ حَزْبٌ عَمَاسٌ و عَمِيسٌ: سخت لڑائی۔ لَيْلٌ عَمَاسٌ: بہت تاریک رات۔ العَمَاسُ: قوی شیر۔ مصیبت ج عَمَسٌ و عَمَسٌ۔</p> <p>العَمُوسُ و العَمَاسُ: وہ شخص جو کاموں کو نالوں کے مانند بے پائند کرے۔</p> <p>أَمْرٌ مُعَمَّسٌ: سخت کام۔</p> <p>عَمِيسَتٌ (س) عَمَسًا عَيْثُ: آنکھ کا زور ہونا۔ چنرا ہونا۔ صفت مُرَ عَمَّسٌ: صفت مؤنث عَمَّسًا ج عَمَّسٌ: فِيهِ الكَلَامُ:</p>
--	--	---

والعمالة. عامل کی اجرت۔ عوام کہتے ہیں
العقولة: کیش۔ ایجت۔
العقول: مزدور۔
القمیل عند الثجار: ایجت۔ آڑھی۔
شریک عمل۔ ج عملاء۔
المعطل: کارخانہ۔ کام کرنے کی جگہ ج
معاہل۔

المعاملات: کاروباری معاملات۔
احکام شرعیہ جن کا تعلق امور دنیاوی سے ہو۔
جیسے بیع و شراکے احکام۔
المستعمل: مفع۔ استعمال کیا ہوا۔
اليعقل واليعتملة: کام کرنے والا اونٹ
اونٹنی ج معاہل و تعملات۔
عَمَنَ (ض) و عَمِنَ (س) عَمَّنَا بِالْمَكَانِ
اقامت کرتا۔
عَمَّنَ وَاَعْمَنَ الرَّجُلُ: ملک عمان میں جانا۔
کسی جگہ میں ہمیشہ رہنا۔
العفون: اقامت کرنے والا ج عمن۔

عَمَّةٌ و عَمِيَةٌ (ف س) عَمَّهَا و عَمَّوْهَا و
عَمَّوْهِيَةً و عَمَّهَانَا و نَعَامَةً: تمہیر ہونا۔ گمراہی
میں بھگانا۔ صفت عَمِه ج عَمِيهون و عَامِه ج
عَمَّة۔

عَمِه (س) عَمَّهَا الْمَكَانُ: بے نشان و بے
علامت ہونا۔ صفت مَرَكَا عَمَّه صفت مؤنث
عَمَّهَا ج عَمَّه۔

عَمَّه فَيَنْ ظَلِمَ فَلَانٍ: ناحق ظلم کرنا۔
العَمَّه: بصیرت کا فقدان۔

عَمِيٌّ يَعْمِي عَمِيًّا: اندھا ہونا۔ دل کا اندھا
ہونا اور جاہل ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ وِعِنْدَهُ: ہدایت
نہ پانا۔ عَلِيَّةٌ: مشتہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَمِيَّتِ
الْاِحْتِيَاظِ عَنِ فَلَانٍ" یعنی پوشیدہ ہو گئیں۔
عَمِيٌّ عَمِيًّا: اصرار کرنا۔ گمراہ ہونا۔

عَمِيٌّ يَعْمِي عَمِيًّا: السَّحَابُ: بھد پڑنا۔
المَوْجُ: جھاگ پھینکنا فَلَانٍ: سخت گری میں
آنا۔

عَمِيٌّ تَعْمِيَّةٌ الْمَعْنَى: معنی پوشیدہ رکھنا
(وَأَعْمَى) الرَّجُلُ: اندھا کرنا۔ اندھا پانا۔
تَعَامَى: بھگنا۔ اندھا ہونا۔

تَعْمَى تَعْمِيًّا: اندھا ہونا۔
إِعْتَمَى اعْتِمَاءً: الشَّيْءُ: چننا۔ تصد کرنا۔
الْعَمِيَّةُ وَالْعَمِيَّةُ وَالْعَمِيَّةُ وَالْعَمِيَّةُ:
گمراہی۔ گمراہی پر اصرار۔
العَمِيَّةُ وَالْعَمِيَّةُ: غمراہی۔
العَمِيْرُ: اندھا ج عَمْفُونُ: مؤنث عَمِيَّة ج
عَمِيَّات۔

العَمِيَّةُ: اندھا ج عَمْفِيٌّ و عَمْفِيَّاتٌ و
عَمَّاتٌ مؤنث عَمِيَّاتُ: الأَعْمَى: جاہل۔ کہا جاتا
ہے "رَجُلٌ عَمِيٌّ الْقَلْبُ": یعنی جاہل آدمی۔
العَامِيَّةُ: بہت گریہ و زاری کرنے والی عورت۔
العَمَاءُ: بلند بادل۔ موسلا دار ہر برس والے بادل۔
الأَعْمِيَّانِ: سیلاب و آتش زدگی۔

المَعْمِيَّةُ: بے نشان زمین۔ ج مَعَامِيٌّ: مَكَانٌ
عَمِيٌّ و أَعْمَى: ایسی جگہ جس میں ہدایت نہ ملے۔
العَامِيٌّ: وہ شخص جو اپنے راستے کو نہ دیکھتا ہو۔
المَعْمِيُّ: مضع من الکلام: چستان۔ پستی۔

عَنِ: حرف جر میں سے ہے اور معانی ذیل میں
مستعمل ہے۔

(۱) مجاوزہ جیسے تَوَخَّلَ عَنِ مَكَانٍ فِيهِ
ضَبْمٌ: اس جگہ سے چل دے جہاں ظلم ہو۔ (۲)
بدل جیسے يَوْمٌ لَا تُجْرَى نَفْسٌ عَنِ نَفْسٍ شَيْئًا:
وہ یوم جس میں کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں
دے گا۔ (۳) تعلیل جیسے مَا فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا عَنِ
إِضْطِرَارٍ: اس نے اس کو مجبور ہو کر کیا۔ (۴) بعد
جیسے عَنِ قَلْبِي تَوَى: تھوڑی دیر کے بعد تجھے
معلوم ہو جائے گا۔ (۵) استثناء جیسے أَحْبَبْتُ
الإِحْسَانَ إِلَى الْفُقَرَاءِ عَنِ كَثْرَةِ الصَّلْوَةِ: میں
نے فقراء کے ساتھ اچھے سلوک کو کثرت نماز پر
ترجیح دی اور کبھی اسم ہو کر جانب کے معنی میں آتا
ہے اور اس وقت اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے
جیسے "جَلَسَ مِنْ عَنِ نَسَارِ الْخَلِيفَةِ" خلیفہ کی
پائیں جانب بیٹھا۔

عَنِ (ن ض) عَنَا و عَنَّا و عُنُونًا وَاَعْتَنَ لَهُ
الشَّيْءُ: سامنے ظاہر ہونا۔ پیش آنا۔ عَنِ عَنِ
الشَّيْءِ: اعراض کرنا۔ عَنِ فَلَانًا: گال رہنا۔ عَنِ و
عَنَّنَ الْكِتَابَ: عنوان لکھنا۔ و عَنَّنْتُ الْكِتَابَ:
ایک نون کو یا سے بدل کر بھی کہتے ہیں۔

عَنْ و عَنَّنَ وَاَعَنَّ الْجَبَامُ: گام میں ڈوری
لگانا۔

عَنْ وَاَعَنَّ الْقَرَسُ: گھوڑے کو گام سے
روکنا۔

عَانَتْهُ مُعَانَةٌ وَعَنَانًا: مقابلہ کرنا۔

العَانُ: قا۔ لمبی رسی۔ پھیلا ہوا بادل۔

العَانَةُ: مؤنث۔ العَانَةُ: بادل۔

العَنْتَةُ: رسی، اونٹ یا گھوڑے کے لیے لکڑی کا
باڑہ۔ ہانڈی رکھنے کا چوراہا۔

العَنْتَانُ: بادل۔ والعَنْتَانَةُ: بادل کا ایک ٹکڑا۔

عَنْتَانُ السَّمَاءِ: آسمان کی بلندی۔ عَنْتَانُ الدَّارِ:
گھر کا کنارہ۔ گھر کا گردا گرد۔

العَنْتَانُ: مہم۔ گام کی رسی۔ ج أَعْنَتُهُ وَعَنْتُنُ: کہا
جاتا ہے "هُوَ قَصِيْرُ الْعَنْتَانِ": یعنی وہ بے خیر آدمی
ہے۔ "وَرَجُلٌ طَوِيْلُ الْعَنْتَانِ": شریف آدمی و
"أَبِي الْعَنْتَانِ": خوددار۔ و "إِسْتِغْلَاءُ عَنْتَانِهِ": جبکہ
اپنی کوشش کو بیچ جائے۔ "وَذَلَّ عَنْتَانَهُ": یعنی
تالخ و فرما ہر دار ہو گیا۔ و "هَذَا يَجْرِيَانِ لِي
عَنْتَانٍ": جبکہ دونوں فضیلت وغیرہ میں برابر ہوں۔

"وَجَزَى الْقَرَسَ عَنَانًا": یعنی ایک پتھر دوڑا۔
"وَكُنَّ فِي عَنَانِهِ": یعنی اپنے پتھر میں ٹھوکر کھا
گیا۔ "وَأَخْرَجَ مِنْ عَنَانِهِ": یعنی اس کو ڈھیل دے
دو۔ و مشرکة العَنْتَانِ: دو آدمیوں کا مخصوص مال
میں شرکت کرنا۔ العَنْتَانُ: سامنے آنے والی چیز۔

العَنْتَنُ: سامنے آنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے
"عَنْتَانَا أَنْ نَفْعَلُ كَذَا": استثنائی یہ ہے کہ تم
ایسا کرو۔

الأَعْنَانُ: درخت کے اطراف۔ أَعْنَانُ
السَّمَاءِ: آسمان کے اطراف۔ اَنْقُ:
العَنْتَانُ: بہت سبقت لے جانے والا۔

المَعْنَى: لایقنی امور میں دخل دینے والا۔
خطیب۔ مؤنث مَعْنَةٌ۔

المَعْنُونُ: مجنون۔ پاگل۔
عَنْبُ الْكُزْمِ: انگور کی تیل میں انگور آنا۔

العَنْبُ: انگور۔ ج أَعْنَابُ: ایک دانے کو عنبہ
کہتے ہیں۔

العَنْبَابُ: انگور بیچنے والا۔ عَنْبُ الثَّقَلَبِ:
کلوے۔

العناب والاعناب۔ بڑی تاک والا۔
العناب۔ عناب۔ ایک دو اکا نام۔ واحد عُنَابَةٌ۔
عَنْبَرُ الشَّيْءِ: خبر سے خوشبودار کرنا۔
العَنْبَرُ: ایک قسم کی خوشبو۔ زعفران۔ ایک قسم
کی بڑی مچھلی۔ ڈھال جو خبر مچھلی کی کھال سے
بنائی جاتی ہے۔ ج عناب۔
عَنْبَرُ الشِّتَاءِ و عَنْبَرَةٌ: سردی کی شدت
عَنْبَرَةُ الْقَدْرِ: پیاز۔
العَنْبَرِيُّ: خبر سے معطر کی ہوئی شراب۔
عَنْبَتْ (س) عُنْتًا: دشواری میں پڑنا۔ مصیبت
سے ہلاک ہونا۔ گناہ کرنا۔ الشَّيْءُ: شراب
و فاسد ہونا۔ العَظْمُ: درستی کے بعد ٹوٹ
جانا۔ صفت عِنْتٌ۔
عَنْتَةٌ: سختی کرنا۔ ایسی چیز لازم کرنا جس کا ادا کرنا
دشواری ہو۔ عَنَّتَ الشَّيْءُ العَظْمَ المَجْبُورُ:
درست شدہ ہڈی کو توڑ دیا۔ عَنَّتَ فِي الجَبَلِ:
پہاڑ پر چڑھنا۔
أَعْنَتَ الحَاجِزَ الكَسْبِيَّ: جڑے ہوئے کو پھر
توڑنا۔ ٹوٹے ہوئے کی دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ
سے ناسد زیادہ ہونا۔ الزَّكَايِبُ الدَّائِبَةُ:
جانور پر سختی سے زیادہ لادنا۔ الزَّجْلُ:
ہلاکت میں ڈالنا۔
تَعَنَّتْ: تکلیف پہنچانا۔ کسی کی لغزش کو ڈھونڈنا۔
تَعَنَّتَ الزَّجْلُ و عَلَيهِ هِيَ السُّوَالُ: بطریق
تلیس سوال کرنا۔
العَنْوَتُ: دشواری گزار نیلہ۔
عَنْوَرٌ عَنْوَرَةٌ: لڑائی میں بہادری کرنا۔ عَنْوَرَةٌ
بِالزُّمَحِ: نیزہ مارنا۔ عَنْوَرُ العُنْتِ: کبھی کا پھینکانا۔
العَنْوَرُ و العُنْتَرُ و العُنْتَرُ: کبھی۔ نیلی کبھی۔
واحد عَنْوَرَةٌ۔
عَنْوَلُ الشَّيْءِ: کلے کلے کرنا۔
العَنْوَلُ: سخت۔ ضِمَاعٌ عَنَابِلُ: شکار کو
کلے کلے کر دینے والے بچو۔
العَنْوَةُ و العَنْوَةُ و العَنْوَةُ: جلی نام۔ ایک
مخصوص گھاس جبکہ وہ خشک اور سیاہ ہو جائے۔ ج
عِنَاتٌ۔
العَنْوَةُ و العَنْوَةُ: بمعنی عَنَفَةٌ ج عَنَابِلِي
العَنْوَةُ: ٹھوڑی کے بال۔

عَنْج (ن ض) عُنْجًا و أَعْنَجَ الشَّيْءُ: کھینچنا۔
الدَّلْوُ: ڈول کو رستی سے باندھنا۔
العُنْجُ: پیٹھ کا درد۔ رستی جس کو بڑے ڈول کے
نیچے باندھتے ہیں۔ ج أَعْنَجَةٌ و عُنْجٌ۔
عُنْجَةٌ: الهُوْدُجُ: ہودے کے دروازے کا
پارو۔
العُنْجُجُ: بڑا۔
العُنْجُجُ: چٹکی ریتان۔
العُنْجُجُجُ: عمدہ گھوڑا۔ عمدہ اونٹ۔ اول جولئی
ج عننا جیح۔
عُنْجُو عُنْجُوَةٌ: ہونٹوں سے سٹی ہجانا۔
العُنْجُوَّةُ: شیشی کا غلاف۔
العُنْجُوهُ: بڑی موٹی سی۔ اکڑ مرور۔
عند۔ ظرف مکان و ظرف زمان۔ جیسے و لقت
عِنْدَ البَابِ و سَافَرْتُ عِنْدَ مَهَيَّبِ الشَّمْسِ
اور من کے داخل ہونے سے مجرور ہوتا ہے جیسے
أَتَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ۔
عِنْدَ (ن ض) و عِنْدِ (س) و عِنْدَ (ک) عُنْوَدًا
عِنَ الظَّرْبِیِّ اَوْ القَصْدِ: تجاوز کرنا۔ ہٹ جانا۔
مائل ہونا۔ الزَّجْلُ: دیدہ دانستہ حق کی
مخالفت کرنا۔ صفت عِنْدِجٌ عُنْدُ ()
وَأَعْنَدَ العَزْفُ: رگ سے خون لگا کر رہنا۔ أَعْنَدَ
فَلَانًا: مقابلہ کرنا۔
عِنْدَ (ن) عُنْوَدًا عِنَ أَصْحَابِهِ: سفر میں علیحدہ
ہو جانا۔
عَانَدَهُ مَعَانَدَةٌ و عِنَادًا: علیحدہ ہونا۔ مقابلہ کرنا
الشَّيْءُ: لازم ہونا۔ الزَّجْلُ: کسی
کے جیسا کام کرنا۔
تَعَانَدَ القَوْمُ: بعض کا بعض کے ساتھ مخالفت
کرنا۔
إِسْتَعْنَدَ الفَرَسُ: گھوڑے کا سر کٹی کرنا۔ منہ
زور ہونا۔ هُ القَيْئِيُّ: غالب ہونا۔
فَلَانًا: قصد کرنا۔
العائید۔ فا۔ میانہ روی سے بٹنے والا۔ ج عُنْدُ۔
عَوَائِدُ: کہا جاتا ہے "طَلَعْنَا طَلَعًا عَائِدًا" اس نے
اس کو دائیں یا بائیں سے نیزہ مارا۔ ذَمٌّ عَائِدٌ: ایک
جانب سے بٹنے والا خون۔
العیند۔ دل۔ معقول۔

العند۔ جانب۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَمْنِي
وَسَطًا لَا عُنْدًا" وہ وسط میں چلنا ہے کنارہ میں
نہیں۔
العُنْدُو العُنْدُو العُنْدُ: گوشہ۔
العُنْدُو: میانہ روی سے بٹنے والا ج عُنْدُ۔ کہا
جاتا ہے "سَحَابَةٌ عُنْدُو" موسلا دھار برسنے والا
بادل۔ عَقَبَةٌ عُنْدُو: دشواری گزار گھائی۔ زَجْلٌ
عُنْدُو: کسی کے ساتھ نہیں بلکہ تھما اترنے والا
مرد۔
عَنْدَرُ المَطَرِ: سخت بارش ہونا۔
عَنْدَلٌ عَنْدَلَةٌ: الھَزَّازُ: بلبل کا چھپانا۔
العَنْدَلِيبُ: بلبل۔ ج عُنْدَالٌ۔
العَنْدَمُ (د م الاخوین)۔
عَنْزَه (ن) عَنْزًا: نیزہ مارنا۔ عَنْزٌ وَاغْتَنْزَ
وَاسْتَعَنْزَ عَنْهُ: علیحدہ ہونا اور ایک گوشہ میں
اترنا۔
أَعْنَزَ الشَّيْءُ: جھکانا۔
تَعَنْزٌ: لوگوں سے علیحدہ ہونا۔
العَنْزُ: مہ۔ بکری۔ مادہ پھور۔ مادہ شکرہ۔ ہرنی۔
مادہ گدھ ج عننا و عُنْزٌ و عُنْزُؤ۔
العَنْزَةُ: بکری۔
العَنْزَةُ: ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہو۔ عَنْزَةٌ
القَاسِیَ چھوڑنے کی دھار ج عُنْزٌ و عُنْزَاتُ۔
العُنْزُ و العَنْزِیُّ: مصیبت میں مبتلا۔
عَنْسَ (ض) عُنْسًا العُنْزُ: کلڑی کو جھکانا۔
موڑنا۔
عَنْسَتَ (ن ض) و عُنْسَتَ (س) عُنْوَسًا و
عُنْسًا و عُنْسَتَ و عُنْسَتَ وَاغْنَسَتَ
العَنْزِيَّةُ: لڑکی کا بالغ ہونے کے بعد دیر تک
بلاشادی کے رہنا۔ صفت عَانِسٌ ج عَوَانِسُ و
عُنْسٌ و عُنْسٌ و عُنْوَسٌ عُنْسَ الزَّجْلِ: بغیر
نکاح کے بڑی عمر تک رہنا۔ صفت عَانِسٌ۔
أَعْنَسَ الشَّيْءُ: متحیر کرنا۔ أَعْنَسَ الشَّيْبُ
وَجْهَةً: بوڑھاپے کا چہرے کو بدلتا دینا۔ کہا جاتا ہے
"فَلَانٌ لَمْ تَعْنَسْ اَوْ لَمْ تَعْنَسِ السِّنُّ وَجْهَهُ:
یعنی فلاں کی عمر بڑھانے کی طرف رخ نہیں
کیا۔ و عُنْسُ العَنْزِيَّةِ أَهْلُهَا: لڑکی کو اس کے
گھر والوں نے نکاح کرنے سے روک رکھا۔

صفت مُعْتَسَّة ج مُعْتَسَات وَمُعَانِس -
عَيْس (س) عَيْسًا: هروقت آئینہ میں دیکھنا۔
العنفس: دم۔ عقاب۔ قوی اونٹنی ج عنفاس و
عُنُوس۔
العنفس: آئینہ ج عُنُوس۔
عَنْش (ن ض) عَنَشًا: الْعُودُ: لکڑی کو موڑنا۔
جھکانا۔ الرَّجُلُ: تکلیف پہنچانا۔ عُشْبَاتَاک کرنا۔
عَائِشَةُ مُعَانِسَةٌ وَعِنَاشًا: لڑائی میں ایک
دوسرے سے لپٹ جانا۔ مفاخرت کرنا۔
إِعْتَسَشَ: لڑائی میں ایک دوسرے سے لپٹ
جانا۔ ظلم کرنا۔
تَعَانَسًا: ایک دوسرے سے معافت کرنا۔
تَعَتَّشَ الْمَالُ: ہر طریقہ سے مال جمع کرنا۔
الأعنش: چھ الکیوں والا۔ بھیٹنا۔
العنصر العنصر: اصل۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ
لِكُرْبِمِ الْعَنْصُرِ" وہ اصلاً شریف ہے۔ حسب۔
ہمت۔ حاجت۔ مصیبت۔ بیوٹی۔ مادہ جسم بسیط ج۔
عناصر اور قدام کے نزدیک عناصر چار تھے۔
آگ پانی ہوا اور مٹی۔
عِنْدَ الْعَنْصُورَةِ: نصرائوں کی ایک عید ہے جو
عید فصح کے پچاس دن کے بعد ہوتی ہے۔ اور
یہودیوں کے نزدیک طور سینا پر احکام شریعت کے
نزول کی یادگار میں عید ہے۔
العنصل والعنصل والعنصلاء
والعنصلاء: جنگی پیادہ۔ جس کو بصل الفار بھی
کہتے ہیں۔
العنصوة والعنصوة والعنصوة
والعنصبة والعنصبة: متفرق تھوڑے سے بال
یا گھاس وغیرہ ج عنصاص۔
للعنظب والعنظبان والعنظوب: ایک قسم
کی مڈی۔ مؤنث عنظوبة۔
عَنْظَبِيَه: ہنصھا کرنا۔ بری بات سنانا۔ گالی دینا۔
العنظوان والعنظيان: قحش کئے والا۔
العنظوان: ایک ترش قسم کی نباتات۔
العنظوانة: واحد سے عنظوان کی۔ مادہ۔
مڈی ج عنظوانات۔
عَنْعَنَ عَنْعَةً: مزہ کو عین کی طرح پڑھنا
الزواوی: روایت کو عن فلان عن

فَلَان سے بیان کرنا۔
عَنْفَ (ک) عَنَفًا وَعَنَافَةً: بِالرَّجُلِ وَعَلَيْهِ
خُتِي کرنا۔ صفت عَنِيفٌ ج عَنَفٌ۔
عَنْفَهُ وَعَنْفَةً: خُتِي سے معاملہ کرنا۔ وَعَنْفَةً خُتِي
سے جھڑکنا۔ عتاب کرنا۔ أَعْنَفَ الْأَمْوَرِ: خُتِي سے
لینا۔
إِعْتَنَفَ الْأَمْوَرِ: خُتِي سے لینا۔ الشئ: شروع
کرنا۔ المجلس سے پھر جانا۔
العنقب والعنقب والعنقب: خُتِي۔ سخت ولی۔
العنقبه والعنقبه: ابتدا۔ شروع۔
الاعنقب: خُتِي سے پیش آنے والا۔
عَنْقُوانِ الشَّبَابِ وَعَنْقُورَةٌ: ابتدائی جوانی۔
عَنْقُورَانِ الْعَهْرِ: شراب کی تیزی۔
المعنقبه: خُتِي کاسب۔
تَعَنْقَصُ: ذُيُکَ سارنا۔ شئی گھارنا۔
العنقبه: واڑھی پڑھنا۔ ج عنقافق۔
عَنْقَ (س) عَنَقًا: لمبی گردن والا ہونا۔ صفت
أَعْنَقُ۔
عَنْقُ: طلع النخل: بھجور کے شگوفہ کالسا ہونا۔
عَنْقَهُ: گردن پکڑنا۔ عَنَقَ عَلَيْهِ: چلانا اور گردن
اُتْحَاکَرُ دیکھنا۔
عَائِقَةُ مُعَانِقَةٌ وَعِنَاقٌ: بغل گیر ہونا۔ گلے لگانا۔
عَانَقَتِ الْإِبِلُ: تیز چلنا۔
أَعْنَقُ: الرَّزْغُ: بھتی کالسا ہونا۔ خوش نکلتا۔
الکذِبُ: کہنے کی گردن میں پٹہ ڈالنا۔ التَّجْمُ:
ستارہ کا غروب ہونا۔ أَعْنَقَتِ الْبِلَادُ: دور دور
ہونا۔ الدابة: جانور کا چوڑے قدم ڈال کر
تیز چلنا۔ الرَّيْحُ: ہوا کا مٹی کو اڑانا۔
تَعَتَّقُ الرَّيْحُ: جنگلی چوہے کا بل میں گھسنا۔
تَعَانَقُ: الرَّجُلَانِ: ایک کا دوسرے سے گلے
لینا۔
إِعْتَنَقُ: الشئ: لازم ہونا۔ خُتِي سے پکڑنا۔
إِعْتَنَقُ الرَّجُلَانِ: لڑائی وغیرہ میں ایک کا
دوسرے کے گلے کو پکڑنا۔
العنق والعنق: گلا (نکر ہے اور مؤنث بھی
مستعمل ہے) ج عنقاق۔ وَعَنْقُ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا
اول۔ کہا جاتا ہے "مَاتَ فَلَانٌ فِي عُنُقِ
الصَّيْفِ" وہ گرمی کی ابتدا میں مر گیا "قَدْ أَخَذَ

بُعْتَقِ السَّبْتِینِ" وہ ساٹھ سال کی ابتدا میں خُتِي
گیا۔ "وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيَّ عُنُقِ الدَّهْرِ" وہ زمانہ
قدیم سے تھا۔ "وَلَوْ أَنَّ عُنُقَ فِي الْعَهْرِ" اس کیلئے
پہلی ہی سبکی میں سبت ہے۔ "وَهُمْ عُنُقُ الْيَلْبِ"
وہ لوگ تیزی طرف مائل ہیں۔ تیرے شکر ہیں۔
والعُنُقُ: درمیں لوگ۔ جماعت۔
العنق: دم۔ جانور کی تیز چال۔
العنقاق: بکری کا پچھتر سال پر ہونے سے پہلے۔
ج أعنق وعنوق۔ عناق الأرض: لمبی کی قسم کا
ایک شکاری جانور۔ العنقاق: مصیبت (۔
والعناقہ) خُتِي و محرومی۔
الاعنق: لمبی گردن والا۔
العنقاء: أعنق کا مؤنث۔ ج عنق۔ عنقاء
مُغْرِبٌ وَالْعَنْقَاءُ الْمُغْرِبُ وَالْمُغْرِبَةُ: ایک
فرضی پرندہ کا نام۔ مصیبت۔ نیلہ کی چوٹی۔ کسی چیز
کی ہلاکت و بربادی کی خبر دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں
خَلَقَتْ بِهِ فِي الْحَوْءِ عَنْقَاءَ مُغْرِبٍ: یعنی عناق
مغرب اس کو فضاء آسمانی میں لے کر اڑا۔ هَضْبَةٌ
عَنْقَاءٌ: بلند نیلہ۔
العناقہ: جنگلی چوہے کا سوراخ۔
العنقیق: گردن۔ بغل گیر ہونے والا۔
المعنق: تیز دوڑنے والا۔ زمین کا سخت و بلند
حصہ۔ لمبی گردن والا۔ ج معنقیق۔
المعنقاق: عمدہ گردن والا گھوڑا یا تیز دوڑنے
والا گھوڑا۔ ج معنقیق۔
المعنقبہ: پٹہ ہار۔
عَنْقَشَ: بِالشئ: بچت جانا۔
تَعَنْقَشُ بِهِ: سخت ہونا۔ بچ جانا۔
عَنْكَ (ن) عُنْكَوًا وَعُنْكَوًا وَتَعَنَّكَ الرَّمْلُ:
ریت کا ڈھیر ہو کر بلند ہونا۔ صفت عَنِكَ ج
عُنْكَ۔ عَنَكَ الْبَابُ: دروازہ بند کرنا۔
الرَّجُلُ: لُغْرُکَرْنَا: القرمش: حملہ کرنا اور
پھرتا۔
عَنْكَةٌ: سلامت کرنا اور شفقت میں ڈالنا۔
أَعْنَكَ: الرَّجُلُ: تودہ ریک میں پڑنا۔
الْبَابُ: دروازہ بند کرنا۔
العنک: تودہ ریک۔
العنکبوت: مکڑی ج عنکابت عنکبوتات۔

ملاقات کرنا۔ کہا جاتا ہے ”عہد ہی بہ قرینت“ میری ملاقات اس سے قریب ہے۔ عہد الی فلان: وصیت کرنا اور شرط لگانا الیہ فی کذا: وصیت کرنا اور ذمہ دار بنانا۔

عہد الصکان: موسم ربیع کی پہلی بارش کا ہونا۔

عہدہ: معاہدہ کرنا۔ حلیف بننا۔

أعہد: فلاناً من کذا: اہم بنانا۔ بری کرنا۔ کفالت کرنا۔

تعاهد القوم: ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا۔ حلیف بننا۔

تعاهد و تعہد و اعتمد الشئ: حفاظت کرنا۔ دیکھ بھال کرنا۔ عمد کی تجدید کرنا۔ تعہد و اعتمد املاک: اپنے املاک کی حفاظت و اصلاح کرنا۔ (تعاهد) کا لفظ بھی اس کے لیے مستعمل ہے۔

استعہد فلاناً من صاحبہ: حمد لینا فلاناً من نفسه: اپنے حوادث نفس کا ذمہ دار ٹھہرنا۔

العہد: مہ۔ وفا۔ ضمان۔ امان۔ ذمہ۔ دوستی۔ وصیت۔ میثاق۔ قسم۔ شامی قرآن۔ حج عہود۔ وہ مکان جس میں کسی چیز کا عہد کیا گیا ہو۔ وئی العہد: بادشاہ کا جانشین۔ کہا جاتا ہے ”مکان ذلک فی أو علی عہد فلان“ یعنی فلاں کے زمانہ میں تھا ”و عہدی بہ إند لکرم“ یعنی میرے علم میں وہ کہیم ہے ”هو قرین العہد بکذا“ وہ فلاں کے قریب الحال ہے ”و علی عہد اللہ لا فعلن کذا“ میرے اوپر اللہ کی قسم ہے کہ میں ایسا کروں گا۔ کہا جاتا ہے ”مفی عہدک یفلان“ تم نے اسے کب دیکھا۔ العہد القديم: بائبل کی وہ کتابیں جو مسیح ﷺ سے پہلے لکھی گئیں۔ العہد الجدید: بائبل کی وہ کتابیں جو مسیح ﷺ کے بعد لکھی گئیں۔

العہد والعہدہ والعہدہ: موسم ربیع کی پہلی بارش۔ حج عہاد۔

العہادہ: موسم ربیع کی پہلی بارش۔

العہدہ: ضمان۔ کفالت۔ اصلاح کے لیے واجب۔ کہا جاتا ہے ”لی فی الأمر عہدہ“ یعنی

عنی یعنی عنیناً الأمر لفلان: واقع ہونا۔ نازل ہونا۔ _____ فیہ الأکل: مفید ہونا۔ _____ الأرض بالنبات آگاہ۔ _____ عنیناً عنیناً: ہنسا۔ قائلہ کذا: فرادینا۔

عنی اللہ بہ عنیناً: حفاظت کرنا۔

عنی یعنی عنیناً و عنیناً و عنیناً الأمر۔ فلاناً۔ مشغول کرنا۔ فکر مند کرنا۔ عنی بالأمر و عنی بہ یعنی عنی: مشغول ہونا۔ فکر مند ہونا۔ مشقت لاحق ہونا۔ صفت عنان و عن۔

عنی یعنی عنی الأکل فیہ: مفید ہونا۔ عنی یعنی عنیناً: تھمنا۔

عنی تعیناً و اعنی اغناء الرجل: تکلیف پہنچانا۔ امر و شوار کی تکلیف دینا۔

الکتاب: دیاچہ لکھنا۔ کہا جاتا ہے ”ما اعنی شیناً“ یعنی کسی چیز کو فائدہ نہیں دیا۔

عانی معاناة الشئ: مشقت برداشت کرنا۔ الرجل مالة: مال کی حفاظت کرنا۔

عادات کرنا۔ الهنوم فلاناً: نظرات کا آنا۔ تعنی تعیناً: برداشت کرنا۔ تھمنا۔ الأمر برداشت کرنا۔ تکلیف اٹھانا۔ _____ فی الأمر: قصد کرنا۔ _____ الخشی فلاناً: بخار کا بار بار آنا۔

اعنتنی عنیناً: بالأمر: اہتمام کرنا۔ پروا کرنا۔ الأمر: واقع ہونا۔ نازل ہونا۔ کہا جاتا ہے

ہو بہ اعنی: یعنی زیادہ اہتمام کرنے والا ہے۔ العنی: اہتمام کرنے والا۔ مؤنث عنیناً۔

العنینان: عنوان۔

العنینة والعنناء والعننا: تھکن۔

المعنی: مقصور۔ معنی (الکلمة): کلمہ کا مدلول۔ معنی الکلام: کلام کا مضمون ج معان۔

معانی سے انسان کے صفات محمودہ بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ”فلان حسن المعانی“ فلاں اچھی صفات والا ہے۔

المعنوی: معنی کی طرف منسوب۔

معنی الکلام و معنائه و معنیته: مدلول کلام۔ عہد (س) عہد الأمر: بیچانا۔ _____ الشئ: حفاظت کرنا۔ دیکھ بھال کرتے رہنا۔ _____ فلاناً و عہدہ: حفاظت کرنا اور پورا کرنا۔ عہد اللہ: توحید بیان کرنا۔ _____ فلاناً بمکان کذا:

العنکب۔ نرکزی ج عنکاب و عنکاب۔ العنکبة والعنکبۃ والعنکبۃ مارہ کزئی ج عنکاب و عنکاب۔

عتم۔ البتان: پورے کو عتم سے رنگنا (دیکھئے عتم)

أعتمت الماشیۃ: جانور کا عتم کو چرنا۔ (دیکھئے عتم)

العتم۔ ایک درخت ہے جس کا پھل سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور جس سے رنگے ہوئے پودے کو تشبیہ دیتے ہیں۔ واحد العتمۃ۔ العتم: انور کی تیل کے دھاگے جو ٹی کی لکڑیوں سے لپٹ جاتے ہیں۔

العتمۃ۔ انسان کے ہونٹ کا پھن۔ العتمی: سرفی آئینہ خوبصورت چہرہ۔

العنوم۔ زمینڈک۔

عنا یعنی عناء و عنوا: لہ: خضوع کرنا۔ تھمنا۔

فرما بردار ہونا۔ ذلیل ہونا۔ صفت عنان و عنی مؤنث عنینة و عنینة: الشئ: ظاہر کرنا۔

عنت الأرض بالنبات: آگاہ۔ عناء الأمر: غم میں ڈال دینا۔ عنا الأمر علیہ: دشوار ہونا۔

عنت الأمر و یفلان: نازل ہونا۔ (_____ عنوا) الکتاب: عنوان لکھنا۔ خط پر یہ لکھنا۔

عنا یعنی عنوا: زبردستی لے لینا۔ صلح لینا۔

عنا یعنی عنی یعنی عننا: فی القوم: قہری ہونا۔ صفت عنان ج عناء مؤنث عنینة ج عنینان و عنوان۔

عنی تعینة الرجل: قید کرنا۔

أعنی اغناء الرجل: فرما بردار کرنا۔ ذلیل کرنا۔

أعنت الأرض النبات: آگاہ۔

العالی: بہتا ہوا خون پائیالی۔ العنوا والعننا: گوشہ۔ کنارہ۔ حج اعناء۔ کہا جاتا ہے ”جاءنا اعناء من الناس“ ہمارے پاس مختلف قبائل کے لوگ آئے۔

عنون عنونہ: دیاچہ لکھنا۔

عنوان الکتاب و عنوانہ و عنینانہ و عنینانہ: دیاچہ کتاب۔ ”و عنون کل شئ“: وہ جس کے ظاہر سے باطن کا حال معلوم ہو جائے

کہا جاتا ہے ”الظاہر عنون الباطن“

کرنا۔ عَادَ فَلَانًا بِالْمَعْوُوفِ: احسان و بھلائی کرنا۔

عَادَ يَعُوذُ عَوْدًا وَعَوْدَةً وَمَعَادًا الْكَذَّاءِ وَالنِّبَا كَذَا: کسی کی طرف ہونا۔ اعراض کے بعد واپس ہونا۔ کہا جاتا ہے ”عَادَ عَلَيَّ مِنْ فَلَانٍ مَكْرُوهَةً“ فلاں کی جانب سے مجھے تکلیف پہنچی۔

عَادَ يَعُوذُ عَوْدًا وَعِيَادًا الشُّقَى: دوبارہ کرنا۔ اسی سے مثل ہے ”العَوْدُ أَحْمَدُ“ عَادَ الْأَهْرُ كَذَا: بمعنی صار اور یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور کبھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال کے لیے آتا ہے جیسے ”عَادَ فَلَانٌ شَيْخًا“ یعنی فلاں جوان سے بوڑھا ہو گیا۔

عَادَهُ عَوْدًا: عادت بنا لینا۔

عَادَ يَعُوذُ عَوْدًا وَعِيَادًا وَعِيَادَةً وَعَوَادَةً الْمَرِيضِ: بیمار پر سی کرنا۔ صفت مذکر عائذ ج عَوَادٌ وَعَوْدٌ وَعَوْدٌ اور صفت مؤنث عَائِدَةٌ جمع عَوَادٌ اور صفت مفعول مَعْوُودٌ اور مَعْوُودَةٌ۔

عَوْدٌ فَلَانًا كَذَا: عادی بنانا یا عَادَ الشُّقَى: عمر رسیدہ اُونٹ کا بوڑھا ہونا۔ الرَّجُلُ: عمر رسیدہ ہونا۔

عَيْدٌ تَعْيِيدًا: عید میں حاضر ہونا۔

عَاوَدَهُ مَعَاوِدَةً وَعَوَادًا الرَّجُلُ: آمراؤں کی طرف واپس آنا۔ الشُّقَى: عادت بنا لینا۔ کہا جاتا ہے ”عَاوَدَهُ بِالْحَضِي“ بار بار بخار آیا و ”عَاوَدَهُ بِالْمَسَالَةِ“ بار بار سوال کیا۔

أَعَادَ إِعَادَةَ الْأَهْرَاءِ وَالْكَلَامِ: لوٹانا۔ دہرانا۔ الشُّقَى: عادت بنا لینا۔ طاقت رکھنا۔

الشُّقَى إِلَى مَكَانِهِ: اس کی جگہ پر واپس کرنا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ مَا يُعِيدُ وَمَا يُبِيدُ“ جبکہ کوئی حیلہ نہ ہو۔ ”زَيْتٌ فَلَانًا مَا يُبِيدُ وَمَا يُعِيدُ“ یعنی کچھ بھی متنگو نہیں کرنا نہ ابتداء نہ عادت۔

تَعَوَّدَ تَعْوُدًا الْمَرِيضُ: بیمار پر سی کرنا۔ الشُّقَى: عادی ہونا۔

إِعْتَادًا وَعِيَادًا الشُّقَى: خوگر ہونا۔ عادی ہونا۔ تَعَاوَدَ الْقَوْمُ فِي الْحَزْبِ: ہر فریق کا اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جانا۔

اسْتَعَادَ اسْتِعَادَةً: لوٹنے کو کرنا۔

العَوَاهِنُ: درخت خرما کی خشک شدہ شاخیں۔ عَاهِنَهُ كَيْلِيَةً عَقْرِيْبَ لَوْثُونَ كَمَا عَطَا عَقْلًا كَا نَقَصَ۔ کہا جاتا ہے ”فِي خُطْبِهِ عَهْدَةً“ اس کا خط ردی ہے۔

العَهْدُ: عمدے کو پسند کرنے والا۔ معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا۔ العَهْدَانُ: ضمان و کفالت۔ العَهْدِيْدُ: معاہدہ کرنے والا۔ معاہدہ کیا ہوا۔ پرانا۔ المتعَهَّدُ: عہدہ۔ جگہ جس میں کوئی چیز معمول ہو۔ لوگوں کی واپسی کی جگہ۔ ج معاہدہ۔ المتعَهَّدُ: مشہور۔ معروف۔ مشہور۔

عَهْرٌ (ف) عَهْرٌ أَوْ عَهْرٌ أَوْ عَهْرٌ أَوْ عَهْرٌ أَوْ عَهْرٌ أَوْ عَهْرٌ أَوْ عَهْرٌ (س) عَهْرٌ: زنا کرنے کے لیے جانا۔ صفت مذکر عَاهِرٌ ج عَاهِرٌ صفت مؤنث عَاهِرَةٌ و عَاهِرَةٌ ج عَوَاهِرُ۔ عَاهِرٌ هَا عَاهِرًا: زنا کرنے کے لیے جانا۔ العَهْرُ: زنا کرنے کیلئے جانے والا۔ زنا کار۔ العَاهِلُ: شمشاد۔ بڑا بادشاہ۔ بے خاندان عورت۔ ج عَوَاهِلُ۔

عَهْرٌ (ن) عَهْرًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ مِنَ الْمَكَانِ: لنگنا۔ فِي الْعَمَلِ: کوشش کرنا۔ إِلَى فَلَانٍ: عہدہ لینا۔ لِفَلَانٍ مَرَادَهُ: جلدی پورا کرنا۔ الشُّقَى: بیٹہ ہونا اور ثابت ہونا۔

عَهْرَتٌ (ن ض) عَهْرُونَ: جزائذ التَّخْلِ: درخت خرما کی شاخوں کا خشک ہونا۔ عَهْرٌ (ض) عَهْرًا: القَصِيْبُ: شاخ کا چنگا اور ٹوٹنے کے قریب ہونا۔ عَهْرٌ (س) عَهْرًا كَذَا: جلدی کرنا۔ الشُّقَى: حاضر ہونا۔

العِهْنُ: اون یا رنگی ہوئی اون ج عَهْرُونَ: کہا جاتا ہے ”هُوَ عَهْنٌ مَالٌ“ یعنی وہ مال کا بہتر انتظام کرنے والا ہے۔

العِهْنَةُ: شاخ کی پلک جو ٹوٹنے کے قریب ہو۔ العِهْنَةُ: اون یا رنگی ہوئی اون کا ایک ٹکڑا۔ ایک درخت ہے جس کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔

العَاهِنُ: ناقیر حاضر۔ ثابت۔ جلدی کرنے والا۔ اذھیلا۔ کابل۔

عَوَجٌ عَوَجًا: عوج کی ہتھی دانت کا بیچنے والا۔ العَوَجُ: کئی۔ وچیدگی۔ العَوَجَاءُ: مؤنث عَوَجُجٌ۔ کمان۔ ذیلی اُونٹنی ج عَوَجُجٌ۔

العَوَجُجُ: ہتھی دانت کا بیچنے والا۔ العَوَجُجُ: کئی۔ وچیدگی۔ العَوَجَاءُ: مؤنث عَوَجُجٌ۔ کمان۔ ذیلی اُونٹنی ج عَوَجُجٌ۔

العَوَجُجُ: ہتھی دانت کا بیچنے والا۔ العَوَجُجُ: کئی۔ وچیدگی۔ العَوَجَاءُ: مؤنث عَوَجُجٌ۔ کمان۔ ذیلی اُونٹنی ج عَوَجُجٌ۔

عَادَهُ يَعُوذُ عَوْدًا: ہٹانا۔ عَادَ السَّائِلُ: واپس

الشَّيْءِ فَلَا تَأْوِي مِنْهُ فُلَانٌ بولتا ہے کو کتنا
الشَّيْءِ جاری ہوتا۔ خوگر ہوتا۔
عَادَ۔ عرب اولیٰ کا ایک شخص۔ ایک پرانا قبیلہ
جو اسی شخص کے نام سے موسوم تھا۔ کہا جاتا ہے
”مَا أَذْرِي أَيُّ عَادَهُو“ مجھے نہیں معلوم کہ وہ
کون ہے۔

العَادِي۔ وہ امر جس کی عادت جاری ہو۔ پرانی
چیز۔ اقوام قدیمہ کے کھنڈرات۔ حج عَادِيَات۔
العَوْد۔ مہ۔ بوڑھا اونٹ۔ بوڑھی بکری۔ حج
عَوْد۔ پرانا راستہ۔ کہا جاتا ہے ”زَجَّعَ عَوْدًا
عَلَىٰ بَدَاوٍ“ زجاج عودہ علیٰ بدنه یعنی اس
کاسفرختم نہیں ہوا اور وہیں آگیا۔

العَوْد۔ لکڑی۔ کئی ہوئی شئی۔ ایک قسم کی
خوشبو جس کو بطور بخور استعمال کیا جاتا ہے۔ زبان
کی جڑ کی ہڈی۔ سارنگی حج عِيدَانِ وَاَعْوَادِ و
اعْوُد۔

عَوْدُ الصَّلِيبِ و عَوْدُ القَرْحِ و عَوْدُ
الانجَبَارِ۔ دواؤں کے نام۔

العِينِد۔ عید۔ ہر وہ دن جس میں کسی صاحب
فضل یا کسی بڑے واقعہ کی یادگار مناتے ہوں۔ کہا
گیلے کہ اس کو عید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر
سال لوٹ کر وہ دن آتا ہے اور اصل اس کی
(عُود) ہے۔ اور اس کی جمع قاعدہ کے مطابق
(اعْوَاد) ہونی چاہئے تھی مگر (عُود) بمعنی لکڑی
کی جمع سے فرق کیلئے اس کی جمع (اعْيَاد) آتی
ہے بالعیند بار بار آنے والی بیماری یا غم وغیرہ۔

العَادَةُ۔ عادت۔ خوج عَادَاتِ و عَادِ و عِينِدِ
و عَوَائِدِ عَوَائِدُ گویا عائدہ کی جمع ہے۔
العَوَاد۔ سارنگی بجانے والا۔

الأَعْوُد۔ نافع تر۔ زیادہ مفید۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا
أَعْوُدٌ عَلَيْكَ“ یعنی یہ تمہارے لیے زیادہ نافع
ہے۔

العَائِدَةُ۔ مؤنث عائد۔ حج عَوْدُ و عَوَائِدِ و
عَائِدَاتِ: بھلائی۔ صلہ۔ مہربانی۔ منفعت۔ حج
عَوَائِدِ۔ العَوَائِدِ۔ محصول۔

العَوَاد۔ مہربانی۔ بھلائی کا نام۔ کہا جاتا ہے ”إِنَّ
لَكَ عِنْدَنَا عَوَادًا حَسَنًا“ یعنی تمہارے لیے
ہمارے پاس وہ ہے جو تم پسند کرو۔ عَوَادَتَلَسْتُ

عین کے ساتھ ہے۔

العَوَادَةُ۔ مہ۔ کھانا جو ایک مرتبہ کھانے کے بعد
نئے سہان کیلئے دوبارہ لایا جائے۔ کہا جاتا ہے ”لَنْكَ
العَوَادَةُ وَلَنْكَ العَوْدُ و العَوْدَةُ“ تیرے لیے
و ایسی کا حق ہے۔

المَعَاد۔ مہ۔ لوٹنے کی جگہ۔ آخرت۔ جنت۔ حج
و المَعَادَةُ۔ رونے کی جگہ۔ نوحہ کرنے کی
جگہ حج مَعَاوِد۔

المُعِينِد۔ قازق۔ تجرہ کار۔ عالم بالا مور۔ بار بار
بہا کر کے والا۔ کہا جاتا ہے ”فَرَسٌ مُّبِينِدٌ مُعِينِدٌ“
سدا ہلایا ہوا گھوڑا۔

المَعَاوِد۔ فہ۔ بھٹکی کرنے والا۔ اپنے عمل میں
ماہر۔ جو اس مرد۔

المُتَعِينِد۔ غضبناک۔ سخت ظالم۔
عَادَ يَعْوُدُ عَوْدًا و عِينَادًا و مَعَادًا و مَعَادَةً تَعْوُدُ
و اِسْتَعَادَ بِفُلَانٍ مِنْ كَذَا: پناہ لینا۔ عَادَ بِالشَّيْءِ:
لازم ہونا۔

عَوْدٌ تَعْوِيْدًا و اَعَادَ اِعَادَةً و اَعْوَدَ اِعْوَادًا۔
التَّوَجُّلُ: حفاظت کی دعا کرنا اور اَعْنَيْكَ بِاللَّهِ کہنا۔
منتر کرنا۔ عَوْدًا التَّوَجُّلُ: کسی پر تعویذ لگانا۔

تَعَاوَدَ القَوْمُ: ایک دوسرے کی پناہ لینا۔ ایک
دوسرے پر بھروسہ کرنا۔

العَوْدُ۔ پناہ۔ کہا جاتا ہے ”عَوْدٌ بِاللَّهِ مِنْكَ“ یعنی
میں تم سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔

العِينَاد۔ مہ۔ پناہ کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”العِينَادُ
بِاللَّهِ مِنْكَ“ یعنی میں تم سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔
العَوْدُ۔ پناہ کی جگہ۔ کراہت۔ درختوں سے
گرے ہوئے پتے۔ ناکس و فرمایا لوگ۔

العَوْدَةُ حج عَوْدُ و التَّعْوِيْدُ حج تَعَاوُدِ و
المَعَادَةُ حج مَعَادَاتِ تعویذ۔ اسماء آیات قرآنی جو
لکھ کر آدمی کے گلے وغیرہ میں دفع بیماری وغیرہ
کیلئے لٹکایا جائے۔

العَوَاد۔ کراہت۔ کہا جاتا ہے ”مَا تَرَكْتُ فُلَانًا
إِلَّا عَوَادًا مِنْهُ“ میں نے فلاں کو صرف کراہت کی
وجہ سے چھوڑ دیا۔

العَائِدُ نافع عَوْدُ حج عَوْدُ و عَوَائِدِ و
اُونْتِ یا گھوڑان عَوْدُ و عَوْدًا حج عَوْدَات۔
العَائِدَةُ۔ مؤنث عائد حج عَوَائِدِ و عَائِدَاتِ

العَوَائِدُ: چاند ستارے جن کے وسط میں ایک
ستارہ ہے جس کا نام ریح ہے۔

المَعَاد۔ مہ۔ جائے پناہ۔ منتر۔ کہا جاتا ہے
”مَعَادَ اللّٰهِ و مَعَادًا و جِهَ اللّٰهِ“ و ”مَعَادَةُ اللّٰهِ
مَعَادَةٌ و جِهَ اللّٰهِ“ یعنی اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔

المُعَوِّدُ۔ پکاڑنے کی جگہ۔ تعویذ لگانے کی
جگہ۔ گھروں کے ارد گرد اُونٹوں کی چراگاہ۔

المُعَوِّدُ و المَعَوِّدُ العَوْدُ کاٹوں یا درختوں
کی جڑ میں یا پتھر کے ٹپے کی بناوات۔

عَارَةٌ يَفْعُوذُ عَوْدًا: کانا کر دینا۔ عَارَ الشَّيْءِ:
لے جانا اور تلف کرنا (وَاَعَارَ عَيْنَ
المَاءِ او التَّوَكُّيَةِ پانی کے چشمہ یا کنوئیں کو بند کر
دینا۔ عَارَتْ عَيْنَ المَاءِ او التَّوَكُّيَةِ: پانی کے
چشمہ یا کنوئیں کو بند ہونا۔

عَوْرٌ يَفْعُوذُ عَوْرًا و اِعْوَرٌ۔ کانا ہونا۔ صفت
مذکر۔ اَعْوَرٌ صفت مؤنث عَوْرَاءُ حج عَوْرُ و
عَوْرَانِ۔

عَوْرَةٌ۔ کانا کرنا۔ عَنْ الامرِ: بازار کھنا۔
عَوْرٌ عَلَيْهِ اَمْرَةٌ: قباحت ظاہر کرنا۔ عَوْرُ
المَكَائِلِ: پیمانوں کا اندازہ کرنا۔ عَيْنُ
البَيْتِ: کنوئیں کو مٹی سے بھر دینا۔ عَنْ فُلَانٍ:
دوسرے کی جانب سے جھوٹ بولنا۔ فُلَانًا: رودگر
دینا اور حاجت پوری نہ کرنا۔

اَعْوَرُ عَوْرًا: کانا کر دینا۔ اَعْوَرُ الشَّيْءِ: ظاہر
ہونا۔ اَعْصَاءُ مستورہ کا کھل جانا۔ اَعْوَرُ
الفَارَسِ: سوار میں تیزہ گلنے کی جگہ ظاہر ہونا
التَّوَجُّلِ: تحک کرنا۔

اَعَارَ عَارَةً: الشَّيْءِ و مِنَ الشَّيْءِ: معنی دینا۔
عَاوَرَهُ الشَّيْءُ مَعَاوَرَةً: معنی دینا۔ عَاوَرَ
الشَّمْسُ: انتظار کرنا۔ عَارَهُ الشَّيْءُ: جیسا کسی
نے کچھ کیا وہی اس کی ساتھ کرنا۔

عَاوَرَ و عَاوَرَ: المَكَائِلِ: پیمانوں کا اندازہ
کرنا۔

اِعْوَرٌ۔ کانا ہونا۔ اِعْوَرْتُ و اِعْوَارْتُ العَيْنِ:
آنکھ کاٹنا ہو جانا۔

تَعَوَّرَ العَارِيَةَ: معنی مانگنا۔ و تَعَاوَرَ
و اِعْوَتُونَ القَوْمُ الشَّيْءِ: باری باری لینا۔
دست بدست لینا۔ کہا جاتا ہے ”تَعَاوَرْتُ

الرِّيحَ زَسَمَ الدَّارَ" مکان کے نشانات و کھنڈرات پر مختلف ہوائیں۔ کبھی جنوبی کبھی شمالی کبھی غربی کبھی شرقی ہوں۔

إِسْتَعْوَزَ الرَّجُلُ: سفردہونا۔ اکیلا ہونا۔

إِسْتَعَاذَ الشَّيْءُ مِنْ فُلَانٍ وَإِسْتَعَارَ فُلَانًا الشَّيْءُ مَعْنَى دِينَ كَمَا أُرَادَ فِي "أَزَى الدَّهْرُ يَسْتَعِيزُ فِي ثِيَابِي" میں زمانہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے کپڑوں کو عاریت دینے کو کہتا ہے اور یہ آزی اس وقت کہتا ہے جبکہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اسے موت کا خوف ہوتا ہے۔

العَوَازَةُ: خلل جو سرحد میں ہو اور جس سے خوف کیا جائے۔ العَوَازَةُ مِنَ الْجَبَالِ: شگاف۔ مِنَ الشَّمْسِ: جائے طلوع و غروب۔ العَوَازَةُ: ہر امر جس سے شرم کی جائے۔ انسان کے اعضاء جن کو حیا سے چھپایا جاتا ہے ج عَوَازَاتِ عَوْرَاتِ العَالِيَةِ: فا۔ وہ شخص جس کی آنکھ میں نکلا ہو۔ آشوبِ حُشْمٍ: نکلا۔ ہر وہ چیز جو آنکھ کو تکلیف پہنچائے۔ العَائِرَةُ مِنَ التَّهَامِ أَوْ الْحِجَازَةِ: وہ تیرا پتھر جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْهُ سَهْمٌ أَوْ حَجَزَةٌ عَائِرٌ" اس کو ایسا تیرا پتھر آگرا جس کے پھینکنے والا معلوم نہیں۔

العَائِرَةُ: مؤنث عَائِرٌ۔ کثرت۔ کہا جاتا ہے "لَهُ مِنَ الْمَالِ عَائِرَةٌ عَائِرِينَ" اس کے پاس اتنا مال ہے جو دونوں آنکھوں کو بھر دیتی ہے۔ عَائِرٌ عَائِرَةٌ: نکلنے والی آنکھ ج عَوَائِرُ العَوَائِرُ مِنَ الْجَوَادِ: بڈیوں کی متفرق ڈار۔

العَاوِرَةُ وَالْعَارِيَةُ وَالْعَارِيَةُ: معنی دینا۔ وہ چیز جس کو لوگ آپس میں لیں دیں۔ ج عَوَارُ عَوَارِيٌّ۔

العَوَارُ وَالْعَوَارُ وَالْعَوَارُ: عیب۔ کپڑے کا پھین۔

الاعور۔ کانا۔ مؤنث عَوْرَاءُ ج عَوْرُ وَ عَوْرَانٌ وَ عَوْرَانٌ: المعانِي العَوْرُ: معانی مثل۔ فَلَاةٌ عَوْرَاءُ بے پانی کا جنگل۔ کلمة عَوْرَاءُ: کلمہ توجیہ۔ الاعور: کوا۔ ردی۔ ضعیف۔ بزدل۔ بری رہنمائی کرنے والا۔ پستی ہوئی کتاب۔ وہ شخص جس کا حقیقی بھائی نہ ہو۔ وہ راستہ جس

میں کوئی علامت نہ ہو۔ ج اعاور۔

العور۔ ردی۔ سیرت۔ شئ عَوْرٌ: وہ چیز جس کا تمہارا کوئی نہ ہو۔ مؤنث عَوْرَةٌ۔

العَوْرِيُّ: کوا۔

العَوْرَانُ: بڈیوں کی متفرق ڈار۔

العَوَارُ: نکلا۔ اباہیں۔ راستہ سے تلاو اقف۔ کمزور۔ بزدل۔ ج عواویر۔

الشعار۔ ذیلا کیا ہو گھوڑا۔ اور بقول بعض دم نچا ہوا گھوڑا۔

المعور۔ مِنَ الْأَمْكَةِ: رہشت۔ تاک۔ زَجْلٌ مُعَوَّرٌ: بری عادت والا۔ شئ مُعَوَّرٌ: جس کو کوئی تمہارا نہ ہو۔

عَاوَزَ يَعُوْزُ عَوْرًا الشَّيْءُ فَلَانًا: محتاج ہونا۔ اور کامیاب نہ ہونا۔

عَوْرٌ يَعُوْزُ عَوْرًا الشَّيْءُ: دُشوار ہونا۔ باوجود حاجت کے کامیاب ہونا۔ الأَمْرُ: سخت ہونا۔ الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔ صفت عَوْرٌ وَعَائِرٌ أَعُوْرٌ۔

أَعُوْرٌ إِعْوَارًا الرَّجُلُ: محتاج و بد حال ہونا۔ صفت مُعَوَّرٌ وَ مُعَوَّرٌ: أَعُوْرُهُ الْمُظْلُوْبُ: مطلوب کا عاجز کر دینا اور اس کا حصول دشوار ہونا۔ أَعُوْرِي الشَّيْءُ: محتاج ہونا اور قادر نہ ہونا۔ أَعُوْرُ الشَّيْءِ: دشوار ہونا۔ الدَّهْرُ فَلَانًا: زمانہ کا کسی کو محتاج کر دینا۔

إِعْوَارًا عَوْرًا: جیلہ کرنا۔ حالت کا گڑبڑ ہونا۔ العوز۔ مہ۔ دانہ۔ گور۔ واحد عَوْرَةٌ۔

العوز۔ حاجت۔ سختی۔

المِعْوُزُ وَالْمِعْوُزَةُ: پانا بوسیدہ کپڑا۔ ہر وہ کپڑا جس سے دوسرے کپڑے کی حفاظت ہو۔ ج معاووز و معاووزة۔

عَاسٌ يَعُوْشُ عَوْسًا وَعَوْسَانًا: رات میں چکر لگانا۔ عَالِي عَيْبَالِهِ: آل اولاد کے لیے محنت سے کمانا۔ عَيْبَالُهُ: خوراک دینا۔ عَوْسًا وَعَيْبَالَةً الدَّيْبُ: بھیڑیے کا رات میں خوراک ڈھونڈنا۔ عَوْسًا الشَّيْءُ: تعریف کرنا۔ مَعْيَشَتُهُ: درست کرنا۔

عَوْسٌ يَعُوْسُ عَوْسًا: ہنسنے میں رخساروں میں گڑھا پڑنا۔ صفت أَعْوَسٌ۔

العؤس۔ سپید میٹھے اور نسبت کیلئے عؤسی۔ کہا جاتا ہے کُنَيْسٌ عَوْسِيٌّ۔

العؤاس۔ صیغہ مبارک۔

عَاصٌ يَعْصُ وَ عَاصٌ يَعْصُو: عِصَا وَ عِصَا وَ عِصَا: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ دشوار ہونا۔

الكلام: جس کا بھٹا دشوار ہو۔

إِعْتَاَصٌ إِعْتِصَا: الأَمْرُ عَلَيْهِ: سخت ہونا۔ دشوار ہونا۔ پیچیدہ ہونا۔ جس کی وجہ سے صواب کو نہ پانا۔

عَوَّصٌ: فعل یا قول میں راہ راست پر نہ ہونا۔ الشَّاعِرُ أَوْ الخَطِيْبُ: ایسا شعر یا کلام کہ جس کا بھٹا دشوار ہو۔

أَعْوَصٌ عَوْصًا وَ عِصَا: وَ القِيَاصُ إِعْوَاصًا: يَخْضَمُهُ وَ عَلِي خَضْمُهُ: دلائل سے حیران کر دینا۔ فِي الكَلَامِ: باریک بات کہنا۔

عَاوَصَةٌ مُعَاوَصَةٌ: کشتی لڑنا۔ پھانسا۔

الأعوص۔ باریک بات۔ مؤنث عَوْصَاءُ۔

العَوْصَاءُ: مؤنث أَعْوَصٌ: سختی۔ حاجت کلمة عَوْصَاءُ: کلمہ نادرہ۔

العَوْصُ: دشواری۔

العَائِصُ وَالْعَوْصُ وَالْعِصَاءُ: سختی۔ حاجت۔ العَوْصُ: نفس قوت۔ حرکت۔

العَوِيصُ: مِنَ الْأُمُورِ: دشوار۔ مِنَ الكَلَامِ: جس کا بھٹا دشوار ہو۔ مِنَ الدَّوَاهِي: سختی۔ صیغہ۔ مؤنث عَوِيصَةٌ۔

العَوِيصُ: سختی۔ نفس قوت۔ حرکت۔

عَاصٌ يَعْوُصُ عَوْصًا وَ عَوْصًا وَ عِصَا وَ عِصَا وَ عَوْصٌ وَ عَوَاوِصٌ وَ عَاصَةٌ فَلَانًا: مِنَ كَذَا: بدل دینا۔

تَعَوَّصٌ وَ إِعْتِصَا: يَنْدُ: بدل لینا۔

إِعْتِصَا: وَإِسْتِعَاَصٌ فَلَانًا: بدل مانگنا۔

عَوْصٌ: یہ کلمہ مبنی ہے اور تینوں حرکتوں کے ساتھ مستعمل ہے اور اسم ظرف ہے۔ استعراق مستعمل کا کام دیتا ہے جیسے "لَأَفَارِقُكَ عَوْصٌ" یعنی میں تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوں گا یا استعراق ماضی کے کام میں آتا ہے جیسے "هَازَ أَيْتٌ وَفَلَةٌ عَوْصٌ" یعنی میں نے اس کے مانند کبھی نہیں

عول۔ حج کررہا۔ اَعْوَلَتِ الْقَوْسُ۔ کمان کا آواز کرنا۔ اَعْوَلُ الرَّجُلُ۔ حرص کرنا۔

عولی فلان۔ باز کرنا۔ بھروسہ کرنا۔

عَوْلٌ حج کررہا۔ عولی فلان وہ یہ مدد مانگتا۔ بھروسہ کرنا۔ اعتماد کرنا۔ کہا جاتا ہے ”عَوْلٌ عَلَیْ بِسَابِقَتِ“ یعنی جو تم چاہو مجھ سے مدد لو۔ اور عَوْلٌ عَلَیْهِ مَعْوَلًا کہا جاتا ہے اور مَعْوِلًا نہیں کہا جاتا اور اسم العول ہے اور کہا جاتا ہے ”عَوْلْنَا إِلَى فُلَانٍ فِی حَاجَتِنَا فَوَجَدْنَاهُ یَعْمُ المَعُولُ“ یعنی ہم نے فلاں کی اپنی حاجت میں پناہ لی اور ہم نے اس کو بھروسہ کرنا چاہا۔

عَوْلٌ تَفْوِیلاً عیالہ: اہل و عیال کے معاش کے لیے کافی ہونا۔

اَعْوَلُ اَعْوَالًا۔ حج کررہا۔ کہا جاتا ہے ”مَالَهُ عَالٌ وَلَا مَالٌ“ یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔

العول والعولۃ والعولۃ۔ حج کے ساتھ گریہ و زاری۔ العول: ہر تکلیف دہ کام۔ اہل و عیال کی خوراک مدد طلب کیا ہوا۔

العول۔ بھروسہ۔ اعتماد۔ مدد طلب کرنا۔ عمدہ۔ کہا جاتا ہے ”فُلَانٌ عَوْلٌ مِنَ النَّاسِ“ یعنی لوگوں میں فلاں آدمی میرے لیے قابل اعتماد ہے۔

العالۃ۔ شتر مرغ۔ بارش سے بچنے کے لیے لکڑی وغیرہ کی چھوٹی سی۔

عَوْلٌ الرَّجُلُ۔ گھر کے لوگ جن کا نان نفقہ واجب ہو مدد و مؤنت دونوں کو شامل ہے حج عیال و عیال و عیالہ۔

المعول۔ کدال حج معاول۔

المعول۔ جس سے فریاد کی جائے۔ جس پر بھروسہ کیا جائے۔

عَامٌ یَعْمُوْمٌ عَوْمًا فِی الْمَاءِ۔ تیرنا۔ صفت عائم۔ عَامَتِ السَّفِیْنَةِ فِی الْمَاءِ۔ کشتی کا چلنا۔

عَامُ الزَّمَامِ۔ لگام کا چلنا۔ عَامَتِ التَّحْوَمِ۔ ستاروں کا چلنا۔

عَوْمٌ۔ کئی ہوئی کھیتی کا دستہ دستہ رکھنا۔ عَوْمُ السَّفِیْنَةِ۔ کشتی چلانا۔ کھیتا۔ الکَوْمُ۔ درخت خرما کا ایک سال چھوڑ کر پھل لانا۔

عَوْمَتٌ وَعَاوَمَتٌ التَّحْلَةُ۔ درخت خرما کا ایک سال چھوڑ کر پھل لانا۔ عَاوَمٌ فُلَانٌ فُلَانًا

لوگوں کو اعمال خیر سے روکنے والا۔

العوق۔ بھوک۔

العائق۔ قہر روکنے والی چیز۔ حج عَوَائِقُ وَعَوَقٌ۔ عَوَائِقُ الدَّهْرِ۔ زمانے کے مشاغل۔

العاقبة۔ مؤنت عائق۔ عمل سے روکنے والی چیز۔ حج عَوَائِقُ۔

العئوق۔ نام ایک ستارے کا جو شیا کے پیچھے ہوتا ہے۔

العواق والعوئق۔ چلتے ہوئے جانور کے پیٹ کی آواز۔

عَاكٌ یَعْوُكُ عَوَاكًا وَمَعَاكًا عَلَیْهِ۔ حملہ کرنا۔ متوجہ ہونا۔ یہ: پناہ لینا۔ مَعَاشَةُ: کمائی کرنا۔ صفت عَائِكٌ۔

تَعَاوَلَ الْقَوْمُ: باہم لڑنا۔

اَعْتَوَكَ: القَوْمُ: ہجوم کرنا۔

العُوك۔ مہ۔ کہا جاتا ہے ”مَابِہِ عَوْلًا“ یعنی اس میں کوئی حرکت نہیں۔

العَوِیْكَةُ وَالْمَعْوَكَةُ: لڑائی۔

المعاک۔ جائے بناہ۔ راستہ۔ برواشت۔

عَالٌ یَعْوُلُ عَوْلًا فِی حَكْمِهِ: ظلم کرنا۔ راہ حق سے ہٹ جانا۔

یَعْوُلُ عَوْلًا وَعَالٌ یَعْبِلُ عِیَالًا فِی الْمِیْزَانِ: خیانت کرنا۔

الْمِیْزَانُ: کھٹا۔ اَمْرٌ الْقَوْمِ: مضطرب ہونا۔

الشَّیْ فُلَانًا: بھاری ہونا۔ عَالَتِ النَّاقَةُ ذَنْبُهَا: اُونٹنی کا دم اٹھانا۔

عَالٌ یَعْوُلُ عَوْلًا وَعِیَالًا: کثیر العیال ہونا۔

عَالٌ یَعْوُلُ عَوْلًا وَعِیَالًا وَعَوْلًا الرَّجُلُ عِیَالًا: اہل و عیال کے معاش کی کفالت کرنا۔

الْبِیْتِیْمُ: کفالت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”عَالٌ عَوْلًا وَعِیَالًا عَوْلًا“ یعنی اس کی ماں نے اسے گم کر دیا۔

عَالٌ وَعِیَالٌ صَبْرُهُ: صبر کا ہونا۔

الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔ صفت۔ معول۔

أَعَالٌ اِعْآلَةٌ وَأَعْوَلٌ اِعْوَالًا وَأَعِیَالٌ اِعْیَالًا الرَّجُلُ: بہت اولاد والا ہونا۔ أَعَالٌ الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔ أَعَالٌ وَأَعِیَالٌ: حریص ہونا۔ صفت مَعْوَلٌ وَمُعِیَالٌ أَعَالٌ عِیَالًا: اہل و عیال کے معاش کیلئے کافی ہونا۔

دیکھا اور نفی کے ساتھ شخص ہے اور اضافت کی حالت میں مرہب ہوتا ہے جیسے ”لَا أَعْلَهُ“ عَوْضُ الْعَائِضِیْنَ“ یعنی میں اس کو کبھی نہیں کروں گا۔

العوض۔ حج اَعْوَاضٌ ... العائض والمَعْوَضَةُ بدل۔

عَاطَتْ (ن) عَوَاطًا وَتَعَوَّطَتْ تَعَوَّطًا الْمَرْأَةُ أَوِ النَّاقَةُ: عورت یا اونٹنی کا کئی سال تک بغیر بچھ پن کے حاملہ نہ ہونا۔

العائط۔ وہ جو کئی سال تک بغیر بچھ پن کے حاملہ نہ ہو حج عَوَاطًا وَعَوَاطًا وَعِیَالًا وَعِیَالًا وَعِیَالًا وَعِیَالًا۔

عَاظٌ یَعْوُظُ عَوَاطًا وَالطَّائِرُ: پرندہ کا سنلانا۔

تَعَوَّظَ الْأَسَدُ: شیر کا رات میں شکار کو ڈھونڈنا اور پھاڑنا۔

العاف۔ نرم۔

العَوْفُ مہ حال۔ حصہ۔ مہمان۔ مرغ۔ شیر۔ بھیریا۔ اہل و عیال کیلئے مشقت برداشت کرنے والا۔ پرندہ۔ ایک خوشبودار نباتات۔ اَبُو عَوْفٍ نَزْدَى: اُمُّ عَوْفٍ مَادَةُ مَدَى۔

العَوَافُ وَالْعَوَافَةُ: شکار جس کو شیر رات میں پھاڑے۔ غنیمت۔

عَافَهُ یَعْوُفُهُ عَوَافًا وَعَوَافَةً وَأَعَافَهُ اِعَافَةً وَاعْتِافَهُ اِعْتِافًا عَنِ كَذَا: روکنا۔ باز رکھنا۔ ہٹا دینا۔ کہا جاتا ہے ”أَعْوَقَ بِي الرَّأْدُ أَوِ الدَّائِئَةُ اِعْوَافًا“ یعنی مجھ کو سفر سے توشہ یا سواری نے باز رکھا۔

تَعَوَّقَ: پیچھے ہٹنا۔ تَعَوَّقَ فُلَانًا: باز رکھنا۔ روک دینا۔

العوق والعوق۔ روکنے والا۔ بے فیض آدمی۔

لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنے والا۔ وادی کا موڑ۔ حج اَعْوَاقٌ۔

العوق والعوق والعوق والعوق والعوق والعوق والعوق۔ بڑول۔ روکنے والا۔

رَجُلٌ عَوَقَةٌ وَعَوَقَةٌ وَعَوَقٌ وَعَوِقٌ وَعَوِقٌ

صفت فاعلی غائب اور صفت مفعولی معینت
ومعینوت۔

فَلَانًا: عیب کی طرف منسوب کرنا۔ عاب
الشئی: عیب ناک ہونا۔ صفت غائب۔

عَيْبٌ وَتَعَيَّبَ الرَّجُلُ: عیب کی نسبت کرنا
الشئی: عیب دہرانا۔

تَعَابَيْتِ الْقَوْمَ: ایک دوسرے کا عیب بیان
کرنا۔

العیب۔ م۔ برائی۔ ح غیوب۔
العیبۃ۔ ایک مرتبہ عیب جوئی۔ العیب۔ چڑھے

کی زنجیل۔ کپڑوں کے محفوظ رکھنے کا صندوق۔
ح عیب و عیباب و عیببات و العیبۃ من

الرَّجُلِ: بھید کی جگہ۔
العاب۔ عیب۔ برائی۔

العیباب والعیبابۃ والعیبۃ۔ برا عیب جو۔
المعاب والمعابۃ۔ عیب۔ برائی۔ ح

معایب۔
المعیبۃ والمعیبۃ۔ عیب دار۔

المُعَيَّبُ: زنجیل بنانے والا۔
عَابٌ يَعْيِبُ عَيْبًا وَعَيْبَاتًا الشئی:

فاسد کرنا۔ فین مآلہ: فضول خرچی کرنا اور
خرچ کرنے میں جلدی کرنا۔ صفت مذکر عیبان

صفت مؤنث عیبی۔
عَيْبٌ: اندھے میں ہاتھ سے ٹھنکا۔ اور کہا

جاتا ہے عیب يفعل كذا یعنی وہ ایسا کرنے لگا۔
تَعَيَّبْتُ الْأَيْلَ: برائی سے کمینا۔

العیبوت والعیبات: بہت زیادہ فساد کرنے والا
(والعابۃ)۔

العیبۃ: ایک مرتبہ فساد انگیزی۔ نرم زمین۔
عَاجٌ يَعْبِجُ عَيْبًا بِالشئی: پروا کرنا۔ کہا جاتا

ہے "لَا عَيْبَ بِكَلَامِهِ" یعنی میں اس کی گفتگو کی
پروا نہیں کرتا۔ وَمَا عَجِبْتُ بِالشئی: یعنی میں

اس پر راضی نہیں۔ "وَسُرِبْتُ الذَّوَابُ فَمَا
عَجِبْتُ بِهِ" یعنی میں نے دوا پی اور کوئی فائدہ

نہیں اٹھایا (یہ کلمہ ہمیشہ منفی ہی مستعمل ہوتا
ہے)۔

عَاوَزَ يَعْوِزُ عَوَاوِزًا: حیرانی کے ساتھ آنا جانا
القوس: گھوڑے کا ناک کی سیدھ پر

العِوَانُ: بہتر مددگار۔ بہت مددگار۔ ح
مُعَاوِزِينَ۔

المُعَاوِزَةُ: بوڑھی عورت۔
عَاةٌ يَعْوِزُ عَوَاوِزًا وَعِيَةَ الرَّزْغِ: کھیتی کا آفت

رسیدہ ہونا۔ الرَّجُلُ: آفت رسیدہ کھیت یا
جانوروں کا مالک ہونا۔ صفت عابۃ و عابۃ و عَاةٌ

وَأَعَاةٌ۔
عَوَّةُ الرَّجُلِ: آفت بچھانا۔ _____ وَأَعَاةٌ

وَأَعَاةٌ إِعَاةَةٌ وَإِعَاوَاهَا وَتَعَوَّةٌ تَعَوُّهَا، آفت
رسیدہ کھیت یا جانوروں کا مالک ہونا۔ عَوَّةُ الْقَوْمِ:

کچھ دیر سونے کیلئے ستر میں ٹھہرنا۔ عَوَّةٌ عَلَيْهِمْ
ٹھہرنا۔ اقامت کرنا۔

العاقبة۔ آفت۔ أَهْلُ الْعَاهَاتِ: آفت رسیدہ
لوگ۔

المُعَوِّهَ والمُعَوِّهَ والمُعَوِّهَ مِنَ الْمَوَاضِي
وَعَوِّهَاتِهَا: آفت رسیدہ۔

عَوَى يَعْوِي عَوَاةً وَعَوًّا وَعَوَّةً وَعَوِيَّةً
الکَلْبُ أَوْ الْوَيْثُ وَابْنُ آوَى: بھونکنا۔ کہا جاتا

ہے "فَلَانٌ مَا يَعْوِي وَمَا يَنْجُ" جبکہ کسی کو
ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ الْقَوْمُ إِلَى الْفِتْنَةِ: بلانا

عَوَاهُ يَعْوِيهِ عَيْبًا: عَنِ الشئی: بازار کھانا
وَعَوَى الْقَوْسُ وَنَحْوُهَا: کمان کو جھکانا

الْحَبْلُ أَوْ الشَّعْرُ: رستی یا بال کو موڑنا
عَنِ الرَّجُلِ: جواب دہنا اور نصیحت کرنے

والے کی تکذیب کرنا۔
إِعْتَوَى إِعْتَوَاءَ الشئی: موڑنا۔ _____

الکَلْبُ کے کا بھونکنا۔
عَاوَى الْكَلَابَ مَعَاوَةً: بھونک کر کے گو

آسانا۔
تَعَاوَى تَعَاوِيًا الْقَوْمَ عَلَى فَلَانٍ: کسی پر هجوم

کرنا۔
أَنْعَوَى أَنْعَوَاءً مَرًا:

أَسْتَعْوَى اسْتِعْوَاءَ الْقَوْمِ: فریاد کرنا۔ تندر پر
أَجَارًا: _____ بھونکنا۔

العَوَاءُ: بہت بھونکنے والا کتا۔
العَوَّةُ: م۔ آواز۔ شورا۔ _____ العَوَّةُ: چوڑا۔

المُعَاوِزَةُ: کتیا۔ لومڑی کا پتہ۔
عَابٌ يَعْيِبُ عَيْبًا الشئی: عیب دار بنانا۔

ایک سال کیلئے کرایہ پر معاملہ کرنا۔
أَعْوَمٌ إِعْوَامًا: ایک سال کا ہونا۔ سال کے

اقل میں ہونا۔
العَامُ: جمع عامۃ کی۔ دن، سال۔ ح أَعْوَمٌ

تصغیر عَوِيْمٌ: نسبت کے لیے عامی۔
العامة۔ عامہ کا بیچ۔ سوار کا سرو میدان میں

دور سے نظر آئے۔ کھٹی۔ العامة: کئی ہوئی کھیتی
کے جمع کے ہوئے گئے ح عام۔

العَوْمَةُ: پانی میں تیرنے والا ایک کپڑا۔ ایک قسم
کاسانہ ح عَوْمٌ۔

العَوَامُ: عامانہ۔ تیز رفتار گھوڑا۔
العَوَامَةُ: پھنسی کی ڈوری کی وہ لکڑی وغیرہ جو

پانی پر تیرتی رہتی ہے اور جس کی حرکت سے
اندازہ ہوتا ہے کہ مچھلی پھنسی ہے۔

العَوَامُ: سوار کا سرو میدان میں دور سے نظر
آئے۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْنَهُ ذَاتَ الْعَوْمِ" یعنی

میں سالوں میں کسی سال ملا۔ الْمُسْتَعَامُ: حجاز۔
شہسی۔

عَاثَتْ تَعُوْنُ عَوْنَا الْمَرْأَةُ: عورت اوجھڑ عمر
کی ہونا۔

عَوْنَةٌ تَعُوْنِيَا وَعَاوْنَةٌ مُعَاوِنَةٌ وَعَوَانًا وَ
أَعَانَهُ أَعَانَةً عَلَى الشئی: مدد کرنا۔ عَوْنَتْ

الْمَرْأَةُ: اوجھڑ عمر کی ہونا۔ أَعَانَهُ مِنْهُ: اس نے
اس کو اس سے خلاصی دی۔

تَعَاوَنَ وَاعْتَوَنَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی
مدد کرنا۔

إِسْتَعَانَ فَلَانًا وَيُقَالُ: يَدُوْطِبُ كَرًا۔
العَوْنُ: م۔ مدد کرنا۔ مددگار۔ خادم (واحد جمع

مذکر مؤنث سب کے لیے مستعمل ہے) ح
أَعْوَانُ۔

العانة۔ گدھی۔ گور خر کا بوڑھو۔ بیڑو۔ ح عَوْنٌ
وعانات۔

العَوَانُ: بارش شدہ زمین جنگ جس میں یا کربار
لڑائی ہو۔ الجرب العَوَانُ: سخت جنگ العَوَانُ:

اوجھڑ عمر کا۔ ح عَوْنٌ۔
العَوَانَةُ: گھوڑا کا سار دشت۔ ریت کا ایک کپڑا۔

ایک جانور جو بیہوش سے چھوٹا ہوتا ہے۔
المَعَانَةُ وَالْمَعُوْنَةُ وَالْمَعُوْنُ: مدد۔

بجائے کہ کوئی چیز اس کو پھیر نہ سکے۔ اسم العقیار
_____ فلاناً: عیب لگانا۔ عازت القصیذة:
قصیدہ کا مشورہ ہونا۔

عقیر فلاناً: حار کی طرف نسبت کرنا۔ فصل کی
بڑائی بیان کرنا۔ کہا جاتا ہے "عقیرة کذا وعقیرة
بكذا عقیر النساء": کالی والا ہونا۔

عاقیر و معاقیرة و عیازا المکتبائ او
المیزان۔ اندازہ کرنا۔ جانچنا۔ عاقیر فلاناً: ایک
دوسرے پر فخر کرنا۔

أعاز عازرة الفرض: چرنے کے لیے چھوڑنا۔
موتنا کرنا۔

تعاقیر - القوم: ایک دوسرے کا عیب بیان
کرنا۔ ایک دوسرے کو شرم دلانا۔

العار: عیب۔ ہر وہ قول یا فعل جس سے انسان
کو شرم آئے۔ ج: اغیار۔

العقیر: مہم۔ گدھایا گور خر اور گور خر کے معنی
میں زیادہ مستعمل ہے۔ ج: اغیار و عیثار و عقیر و
عقیرة و عیازات مؤنث عقیرة العقیر: ہری

بھری چیز۔ آگہ کی تیلی یا پکھلی۔ کھوٹی۔ کھڑی جو
ہودج کے آگے لگی ہوتی ہے۔ پہاڑ۔ سردار۔

بلوشہ۔ ذمحل۔ عقیر القدم: قدم کے وسط میں
اچھرا ہوا حصہ۔ عقیر التنضیل: تیر کے پھل کا

درمیان حصہ۔ عقیر الوزقة: پتے کے درمیان کا
خط۔

العیز: قبیلہ حمیر کا قائلہ۔ پھر سارے قائلوں پر
بولا جائے گا۔ ج: عیثات و عیثات۔

العاقیر: ناقہ۔ حیران۔ مزدور۔ پکر لگانے والا سہم
عائم جس تیر کا چلانے والے معلوم نہ ہو۔ شاة

عاقیرة: بکری جو دو گلوں کے درمیان پریشان ہو
کہ کدھر جائے۔

العیثار: جمع عقیر۔ عیثار الشی: ہر چیز کا اندازہ۔
ج: عیثات عیثار الذراہم او الدانیو: دراہم

اور دنانیر کا ٹپ۔
العقیار: ہمت پھرنے والا۔ آوارہ گرد۔ فروس
عقیار: حیران گھوڑا۔

المعقار: کسوٹی۔ ج: معقارین۔
المعقار: من الخیل: گھوڑا جو مع سوار کے

راستہ سے ایک طرف ہو جائے۔

المعاقیر - عیوب۔

المستعیر: جو گدھے کے مشابہ ہو۔ موتا
گھوڑا۔

أعیس اغیاسا الزرع: کھیتی کار مرچانا۔ خشک
ہوتا۔

تعیتت - الإبل: بھورے رنگ کا ہونا۔
العیس و العیسة: بھورے رنگ کا اونٹ۔

العیس: بھورے رنگ کا اونٹ۔ واحد۔ مذکر
أعیس واحد مؤنث عیسة۔ العیس: عمدہ قسم

کے اونٹ۔ العیسة: مادہ مٹی۔
عیسی: عبرانی لفظ ہے نام ایک نبی (علیہ السلام) کا ہے

نسبت کے لیے عیسوی اور عیسیٰ۔
عاش یعیش عیثا و عیثة و معاشا و

معیشا و معیثة و عیشوشة: زندہ رہنا۔
عیثہ و اعاشہ و اعاشة: زندہ رکھنا۔

عایشة: ساتھ زندگی بسر کرنا۔
تعیش: اسباب زندگی کے لیے کوشش کرنا۔

تعایشوا: بالالف و الم و الذی: محبت و پیار سے
ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔

العایش: فنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ زَجَلٌ عَائِشٌ"
اس کی حالت اچھی ہے۔

العیش: مہم۔ زندگی۔ کھانا۔ روٹی (_____
و العیسة) زندگی کی حالت۔

العیاش: روٹی بیچنے والا۔ کھانے بیچنے والا۔
عایش کا ماخذ۔

المعاش و المعیسة: کھانے پینے کی جس چیز
سے زندگی بسر ہو سکے۔ زندگی کا ذریعہ۔ المعاش:

زندگی کے گزران کے ڈھونڈنے کا وقت یا زمانہ۔ ج
معاش۔

المعیش: فنا۔ جس کے پاس کچھ گزر بسر کے
قابل ہو۔

العیص: گنجان درخت۔ اچھے درختوں کے
اگنے کی جگہ۔ اصل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ عِیصِ

کربیم" یعنی شریف اصل سے ہے۔ ج: اغیاص و
عیصان۔

المعیص: درخت کے اگنے کی جگہ۔
عاطت تعینط عیظا: العقی: گردن لمبی ہونا۔
عیظ یعیط عیظا الزجل: لمبی گردن کا ہونا۔

صفت مذکر أعیط اور صفت مؤنث عیظاء ج
عیظ۔

عَیْظٌ تعینطاً: چمٹنا۔ چلانا۔
تعیط: ٹھہرنا۔ ہونا _____ القوم: چمٹنا۔

شور مچانا۔ تعیطت العقی: گردن لمبی ہونا۔
تعیط القوم: کھڑی میں سے پانی جیسا برہ کرکوند

بن جانا۔
العیاط: حج۔ شور۔

العایط: فنا۔ چمٹنے والا۔ ج: عیظ و عیظ و عیظ
و عیظ و عیظات اور مالذ کے لیے کہا جاتا

ہے عایط عیظ و عیظ و عیظ۔
هضبة عیظاء: اونچائی۔

عاف یعیف و یعاف عیفا و عیفاً۔
الطعام و عیفة: کراہت کی وجہ سے چھوڑ دینا۔

عاف یعیف عیافة: القلیظ: پرندہ اڑا کر
شگون لینا۔

عافت تعیف عیفا القلیظ: منزلانا اور اسم
عیفة۔

أعاف إعافة: القوم: پانی ناپسند کرنے والے
جانوروں کا مالک ہونا۔

إعفاف اغنیافاً: سفر کیلئے توشہ لینا _____
الطعام و عیفة: ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ

دینا۔
العایف: فنا۔ شگون لینے والا۔

العیفة: ایک مرتبہ کمرہ جانا۔ عیفة القلیظ:
منزلانا۔ پرندہ کا چکر۔

العیفة: کراہت کی نوعیت۔ عمدہ مال۔
العیضان و العیوف: شگون لینے والا۔

نسور عوایف متعلین پر منزلانے والے
گدھ۔

العیضان: نفرت کرنے کا عادی۔
المعیف: کمرہ۔

المعیتف: شگون لینے والا۔ قال نکالنے والا۔
عاق یعیق عیقا: بمعنی عاق یعوق عوقاً۔

عاک یعیک عیکاناً: موڑھے کو ہلاتے ہوئے
چلانا۔

عالة یعوله عیلاً و معیلاً الشی: عاجز کرنا۔
مخارج کرنا۔ حال فی مشیہ: ناز و انداز سے چلانا۔

عَالٌ يَعْبِلُ عَيْلًا وَ عَيْوَلًا وَ عَيْوَلًا فِي الْأَرْضِ : جانا اور پھرتا۔

عَالٌ يَعْبِلُ عَيْلًا وَ عَيْلَةً وَ عَيْوَلًا وَ مَعْبِلًا : محتاج ہوتا۔ صفت عَائِلٌ مؤنث عَائِلَةٌ اسم عَيْلَةٌ۔ عَالٌ الرَّجُلُ : کثیر العیال ہوتا۔

عَيْلٌ : کثیر العیال ہونا۔ عَيْلَةٌ : معاش کی کفالت کرنا۔ الْقَوْمُ : عیال ہالیانا۔ بیکار چھوڑ دینا۔ فَرْسَةٌ : مہمل کر دینا۔ بیکار چھوڑ دینا۔

أَعْبِلُ أَعْيَالًا : کثیر العیال ہونا۔ صفت مذکر مُعْبِلٌ۔ صفت مؤنث مُعْبِلَةٌ۔

تَعْبَلُ فِي الْمَشِيِّ : ناز و انداز سے چلنا۔ الْعَائِلُ : فا۔ محتاج عائلہ و عیال و عیالی۔

الْعَيْلَانُ : زریجو۔

عَيْلٌ الرَّجُلُ : گھر کے لوگ عیال۔ عَيْلَةُ الرَّجُلِ وَ عَائِلَتُهُ : گھر کے لوگ جن کا نان نفقہ واجب ہو۔ کہا جاتا ہے "أَمْسِنَتْ أَخَاعِيْلَةً" یعنی فقیر و محتاج ہو گیا۔

العائلة : فاعل۔

الْعَيْلَالُ : ناز سے چلنے والا۔

الْعِيَالَةُ الْمَعَالَةُ لِلْبَيْتِ ذَوْنٌ وَ غَيْرُهُ : چارہ۔ رَجُلٌ مُعْبِلٌ : صاحب عیال۔ اہل و عیال والا۔ عَامٌ يَغَامُ وَ يَغْمُ عَيْنًا وَ عَيْمَةً : دودھ کا خواہش مند ہونا۔

أَعَامَهُ إِعَامَةً : اللہ : بغیر دودھ کے چھوڑنا۔ أَصَامَ الرَّجُلُ : بغیر دودھ کے رہنا۔ الْقَوْمُ : دودھ کم ہونا۔

إِعْتَامٌ إِعْتِيَامًا : عمدہ مال چھانٹ لینا۔

العَيْمَةُ : دودھ کی بہت زیادہ خواہش۔

العَيْمَةُ : عمدہ مال۔

الْعِيَامُ : دن۔ کہا جاتا ہے "سَبَّزْنَا الْعِيَامَ كَثَلَةً" یعنی سارے دن چلتا رہا۔

الْعَيْمَانُ : دودھ کا خواہش مند۔ مؤنث عَيْمِيٌّ ج عَيْمَانِيٌّ۔

عَانَ يَعْينُ عَيْنًا : الرَّجُلُ : نظر لگانا۔ صفت عَائِنٌ : صفت مفعلی معینٌ و مفعولٌ () عَيْنًا وَ عَيْنَانًا وَ عَيْنَانًا : المَاءُ أَوِ الدَّمْعُ : پانی یا

آنسو جاری ہونا۔ عَانَتِ الْبَيْتُ : کوئیں کاہت پانی والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَضْرَتْ حَتَّى حَيْثُ" یعنی میں نے کھودا یہاں تک کہ پانی کے چشمہ تک پہنچ گیا۔

(عَيْنَانَةٌ الْقَوْمُ : خبر لانا۔ عَالِي الْقَوْمُ : جاسوس بنا۔

عَيْنٌ يَعْينُ عَيْنًا وَ عَيْنَةً : آنکھ کی بڑی بڑی پتلی والا ہونا۔

عَيْنٌ تَقِيْفِيْنَا : الشَّجَرُ : سرسبز ہونا۔ شُكُوفٌ دَارٌ ہونا۔ التَّاجِرُ : سلمان کو ایک مدت کے بعد سے پرہیز اور پھر پہلے شمس سے کم میں دوبارہ خرید لیتا۔ العَيْنُ : عین کو لکھنا۔ اللُّؤْلُؤَةُ : پیندھنا۔

الْقَزِيَّةُ : مہک میں پانی ڈالنا تاکہ سلائی کے سوراخ بند ہو جائیں۔ الْحَزْبُ بَيْنَنَا : لڑائی جاری کر دینا۔ الشَّيْءُ : خاص کرنا۔ علیحدہ کرنا۔ فَلَانًا : ہمایوں کو رو کر رو کر دینا۔

عَلَيْهِ فَلَانٌ : جاسوسی کرنا۔ عَالِي السَّارِقِ : دشمن میں سے چور کو متعین کرنا۔ الشَّيْءُ لِفُلَانٍ : کسی کے لیے مخصوص کر دینا۔ کہا جاتا ہے "مَا عَيْنَ لِي بَشِيٌّ وَمَا عَيْنَتِي شَيْئًا" یعنی مجھ کو کچھ نہیں دیا۔

أَعَانَ إِعَامَةً : دیکھو مادہ عون۔ کہا جاتا ہے "حَضْرَتْ حَتَّى أَعْيَيْتُ" یعنی میں نے کھودا یہاں تک کہ میں پانی کے چشموں تک پہنچ گیا۔ "وَمَا أَعْيَيْتُهُ" وہ کتابد نظر ہے۔

عَائِنَةٌ عَيْنَانًا وَ مَعَائِنَةٌ : خود دیکھنا۔ معانہ کرنا۔ تَعَيَّنَهُ : نظریہ لگانا۔ تَعَيَّنَ الرَّجُلُ : یعنی طور پر دیکھنا۔ تَعَيَّنَ الشَّيْءُ : دیکھنا۔ الْجِلْدُ : کھال کا اہلہ دار ہونا۔ الرَّجُلُ : کسی شے کے حاصل کرنے کے لیے توقف کرنا۔ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ : مہین چیز لازم ہونا۔ السِّتَاءُ : کسی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دائرے پڑ جانا۔

إِعْتَانَ : الشَّيْءُ : عمدہ لے لینا۔ أَدْحَارٌ خَرِيدًا : الْقَوْمُ : خبر لانا۔ لِفُلَانٍ مَثْوَلًا : تلاش کرنا۔

العائِنُ : فا۔ کہا جاتا ہے "مَا بِالْأَدَارِ عَائِنٌ" یعنی کوئی نہیں "وَضَرَبَ مِنْ عَائِنٌ" یعنی بتے ہوئے

پانی سے پیا۔

العائِنَةُ : مؤنث عَائِنٌ۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْتُهُ أَوَّلَ عَائِلَةٍ وَ أَوَّلِي عَائِلَةٌ" یعنی ہر چیز سے پہلے عَائِنَةُ بِنِي فَلَانٍ : مال و عاقبتیں ہاں۔

العَيْنُ : مع۔ آنکھ۔ آنکھ کے ڈھیلے پر بولا جاتا ہے یا پلک وغیرہ سمیت سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ کلمہ مؤنث ہے جِ عَيْنٌ وَ عَيْوَلٌ وَ عَيْوَلٌ وَ عَيْوَلٌ وَ عَيْوَلٌ وَ عَيْوَلٌ : بیچ آہنٹات اور تصغیر عَيْوَلَةٌ۔

العَيْنُ : اہل شر۔ اہل مکان۔ بد نظری۔ کہا جاتا ہے "بِهِ عَيْنٌ" یعنی بد نظری۔ انسان اور اسی سے ہے "مَا بِالْأَدَارِ عَيْنٌ" یعنی کوئی نہیں۔ خالص۔ واضح۔ کہا جاتا ہے "ذَكَرْتُ الْحَقَّ بِعَيْنِهِ" یعنی حق کو خالص اور واضح طریقہ سے بیان کیا۔ نفس۔ عزت۔ جملہ عَيْنٌ الْإِنْفِرَةُ : سوئی کا تار۔

دید ہاں۔ جاسوس۔ جماعت۔ ہر موجود چیز۔ کہا جاتا ہے "بَعَثْتُهُ عَيْنًا بِعَيْنٍ" یعنی موجود کو موجود سے بچا۔ عمدہ چیز۔ کھال کے چھوٹے چھوٹے حلقے۔

دیار۔ نقد موجود ذات شئی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ هُوَ عَيْنًا أَوْ بِعَيْنِهِ" سو۔ سردار۔ شریف قوم۔ کمانڈر۔ فوج کا ہراول۔ آفتاب یا شارع۔ سال۔ تیار ہاں۔ نالی کے پانی کے گرنے کی جگہ۔ کوئیں کے پانی چھوٹے کی جگہ۔ پانی کا چشمہ۔ جِ عَيْنٌ وَ عَيْوَلٌ : ترازو کا بھکاؤ۔ گوشہ۔ نظر دیکھنے کی جگہ۔

کہا جاتا ہے "فُلَانٌ عَيْنٌ عَلَيَّ فُلَانٌ" یعنی فلاں فلاں کے اوپر نگہبان ہے "هُوَ عَيْدٌ عَيْنٌ أَوْ صَدِيقِي عَيْنٌ" وہ دیکھو اسے کا خادم یا دوست ہے لَقِيْتُهُ عَيْنٌ عَيْتَةً میں اس کو اسی حالت میں ملا کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا "لَقِيْتُهُ أَوَّلَ عَيْنٍ" میں نے اس سے سب سے پہلے ملاقات کی "لَا تَطْلُبُ أَمْرًا أَبَدَ عَيْنٍ" یعنی بعد معانہ کے اثر کو مت طلب کرو اور یہ ضرب اللش ہے اس شخص کیلئے جو کسی چیز کو دیکھے اور چھوڑے اور اس چیز کے مفقود ہونے کے بعد اس کے نشان کے پیچھے پڑ جائے۔ "مَا عَيْتُ أَبَدَ عَيْنٍ" و "أَنْتَ عَلَيَّ عَيْنِي" تم میری حفاظت میں ہو تمہارا اکرام میری نگاہ میں ہے "مَا هُوَ عَرَضٌ عَيْنٍ" یعنی وہ قریب ہے "فَعَلَّةٌ عَلَيَّ عَيْنٌ وَ عَلَيَّ عَيْتَتِي وَ عَمْدٌ عَيْنٌ وَ عَمْدٌ عَيْنَتِي" یعنی بتے ہوئے

عَمْدٌ عَيْنٌ وَ عَمْدٌ عَيْنَتِي : عَمْدًا عَلَيَّ


عَمْدًا عَلَيَّ : عَمْدًا عَلَيَّ

عَمْدًا عَلَيَّ : عَمْدًا عَلَيَّ

عَمْدًا عَلَيَّ : عَمْدًا عَلَيَّ

عَمْدًا عَلَيَّ : عَمْدًا عَلَيَّ

<p>ہونا۔</p> <p>عینی یعنی عینا۔ فی المنطق: کلام میں رک جانا۔ عاجز ہونا۔ صفت عینی و عینی۔</p> <p>عینا تعینہ و عینا معا یا ع۔ الزجل: غیر مفہوم کلام کہنا۔ عینا صاحبہ پیچیدہ گفتگو کرنا۔</p> <p>أعینا إعیناء المعاشی: چلنے والے کا ٹھکانا۔ أعیناہ: تھکانا۔ أعیناء الذمّاء الطیب: مرض کا طبیب کو عاجز کر دینا۔ الأثر علیہ: عاجز بنانا۔</p> <p>تعاینا الأثر علیہ و تعینا علیہ و تعیناہ۔ عاجز کرنا۔</p> <p>تعاینا و تعینا و استعینا بالأثر: ناقابل ہونا۔ طاقت نہ رکھنا۔</p> <p>العیناء۔ مع۔ عاجزی۔ واء عیناء: ناقابل علاج مرض۔</p> <p>العئی۔ تھکنے والا۔ گفتگو میں عاجز۔ مع أعیناء۔</p> <p>العینی۔ تھکنے والا۔ گفتگو میں عاجز۔ مع أعیناء و أعینہ۔</p> <p>العینان۔ تھکا ہوا۔ عاجز۔</p> <p>الأعینۃ۔ پیچیدہ کلام۔</p> <p>المعینی۔ تھکا ہوا۔ عاجز۔</p>	<p>العیناء: خوبصورت آنکھ والی۔ بہترین کلمہ۔ کہا جاتا ہے "أزھن عیناء" یعنی سرسبز زمین۔</p> <p>المعاینۃ۔ مع۔ برادری۔</p> <p>العینان۔ منزل۔ کہا جاتا ہے "ھم منک بمعینان" یعنی وہ لوگ ایسی جگہ میں ہیں کہ تم ان کو دیکھ سکتے ہو۔</p> <p>العینان والمعینان۔ بہت نظر لگانے والا۔</p> <p>الماء المعین والمعینون۔ جاری پانی۔ عین معینونہ: بہت پانی والا چشمہ۔</p> <p>المعین لما فی الہندسۃ" شکل مسطح مساوی الاضلاع۔</p> <p>المعین۔ مضم۔ تل۔ آنکھ کی شکل کا منقش کپڑا۔</p> <p>بیتہ معینۃ ومعینۃ یعنی نیت ظاہرہ۔</p> <p>المعینان۔ گھاس پالی تلاش کرنے والا۔</p> <p>عاه یعینہ عینہا۔ آفت پہنچنا۔</p> <p>العائیۃ۔ شور۔ چیخ۔</p> <p>العائہ۔ آفت۔</p> <p>ارض معینوہ۔ آفت رسیدہ زمین۔</p> <p>عینی یعنی و عینی یعنی عینا و عینا بامرہ و عن امرہ: عاجز ہونا۔ ناقابل ہونا۔ الأثر: جاہل</p>	<p>عین۔" یعنی یقین کے ساتھ کوشش کی۔ ولفقاعینہ یعنی اسے ٹھانچ مارا اور سخت سے کہا "و نعیم اللہ بک عینا" اللہ تمہاری آنکھ کو بخشنی رکھے۔</p> <p>العین۔ نکل گئے۔</p> <p>العین۔ مع۔ اہل شر۔ جماعت۔</p> <p>العینان۔ مع۔ محض۔ کہا جاتا ہے "لقینہ اوراہ عینان" یعنی اس نے اس سے ملاقات کی یا اس کو دیکھا اور اس کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں۔</p> <p>العینان بل کا بصل عین و أعینہ۔</p> <p>العینۃ۔ عمدہ نال۔ عینۃ الخیل: عمدہ گھوڑے۔ العینۃ من النعجۃ: بکری کی آنکھ کا گزرا گرد۔ عینۃ الحزب: مادہ جنگ۔ کہا جاتا ہے ثوب عینۃ: خوش نما کپڑا۔ بیع العینۃ: کسی چیز کو اسکی اصلی قیمت سے زیادہ قیمت پر ادھار بیچنا۔</p> <p>العینائی من الشہود: یعنی گواہ۔</p> <p>العینیۃ۔ عین کی طرف منسوب۔</p> <p>العینون۔ بہت نظر لگانے والا۔ مع عین و عین۔</p> <p>الأعین۔ وہ محض جس کی پٹی بڑی اور چوڑی ہو۔ مؤنث عیناء مع عین۔ الأعین: جنگلی تل۔</p>
--	--	---



غَبَّ (ن) غَبَّا و غَبَّبا چند دن کے بعد ملاقات کرنا۔ عَنَّةٌ: ایک دن ٹانہ دے کر آنا۔ غَبَّتْ عَلَيْهِ الحُمَّى: بخار کا ایک دن ٹانہ دے کر آنا۔ غَبَّ جَنَدُهُ: رات بسر کرنا۔ الزَّائِي: راتے اختیار کرنے میں توقف کرنا۔ غَبَّا و غَبَّبا و غَبَّوْنَا و غَبَّوْنَا القُلْعَامَ کھانے کا باسی ہونا۔ بدبودار ہونا۔ غَبَّتِ الأُمُودُ: کاموں کا اتھا کو پھینچنا۔

غَبَّتْ (ض) غَبَّنا و غَبَّوْنَا الماشِيَةَ: جانوروں کا ایک دن ٹانہ دے کر پانی پینا۔ صفت غَابَتْ جُحُوبًا و غَابَاتٌ۔

أَغَبَّ الماشِيَةَ: جانوروں کا ایک دن ٹانہ دے کر پانی پلانا۔ القَوْمُ: ایک دن ٹانہ دے کر ملاقات کو آنا۔ أَعْيَنَتْهُ الحُمَّى و أَعْيَبَتْ عَلَيْهِ: تیسرے دن بخار آنا۔ أَعْبَ القُلْعَامُ: کھانے کا بدبودار ہونا۔ عِنْدَهُ: رات بسر کرنا۔

غَبَّتِ الشَّمْسُ: فاسد ہونا۔ فِي الأَهْرِ: مبالغہ نہ کرنا۔ عَنْهُمْ: دفع کرنا۔ الذَّنْبُ: بھیڑیے کا بکری وغیرہ کے گلے کو پکڑ لینا۔ الغَابُ: فابی گوشت۔ نَجْمٌ غَابٌ: ثابت ستارہ۔

الغِبُّ: مہ۔ نتیجہ انجام۔ بمعنی بعد حُمَّى الغَبُّ: تیسرے دن کا بخار اور صفت موصوف کی صورت میں حُمَّى غِبٌّ بھی بولا جاتا ہے۔ مَا غَبَّ: دور کلانی جِ اغْتَاب۔

الغَبُّ: لہر جو کنارے سے نکرائے۔ پست زمین۔ جِ اغْتَاب و غَبَّوْب و غَبَّان۔

الغَبَّةُ: زندگی کے گزر بسر کا حق و سوا سامان۔ الغَبُّ: مرغ اور تیل وغیرہ کے حلق کے نیچے

لکنته والا گوشت۔ جِ اغْتَاب۔

الغَبِيْبُ: باسی گوشت۔ جھوٹی ندی پیازئی یا زنجی۔

الغَبِيْبَةُ: صبح کا دودھ کہ اسی پر شام کو دودھ جائے۔ اور پھر اگلے دن بلویا جائے۔

التَّبِيْبَةُ: جھوٹی شہادت۔

الغَبِيْبُ: شیر۔

المَغْبِيْبَةُ: انجام۔

المَغْبِيْبَةُ: انجام کا انتظار کرنے والا۔

غَبَّتْ (ن) غَبَّنا۔ الغَبِيْبُ بِالسَّمَنِ: پھیر کو مٹھی سے لٹ کرنا۔

أَغْبَيْتُ: مٹھا لانا۔ صفت "أَغْبَيْتُ"

الغَبِيْبَةُ: مٹھا لانا۔

عَجِبَ (س) عَجِبنا۔ الماءُ: لگا لگا گھونٹ گھونٹ پینا۔

الغَبِيْبَةُ: گھونٹ۔

غَبِيْرُ (ن) غَبِيْرًا: گزرتا۔ ٹھہرتا۔ گرد آلود ہونا۔

غَبِيْرُ (س) غَبِيْرًا: الجُنْحُ: زخم کا خراب ہو کر مندل ہونا۔ اور پھر ٹوٹ جانا۔ صفت "غَبِيْرُ" غبار لگانا۔

غَبِيْرٌ: غبار اڑانا۔ الشَّمْسُ: غبار میں تیز رفتاری۔ الرَّجُلُ: لِإِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ کتا۔ یا قرأت وغیرہ میں آواز کو لٹکانا اور کہا جاتا ہے "غَبِيْرُ فِي وَجْهِ فُلَانٍ" اس نے فلاں کے چہرے میں غبار ڈال دیا یعنی بڑھ گیا۔

أَغْبَيْتُ: غبار اڑانا۔ گرد آلود ہونا۔ فِي الأَهْرِ: متوجہ ہونا اور کوشش کرنا۔ أَعْيَبَتْ السَّمَاءُ: زور سے برساتا۔

أَغْبَيْتُ: گرد آلود ہونا۔ التَّوْبُومُ: بہت غبار والا ہونا۔

الغَبِيْرُ: چیز کا بقیہ۔ جِ اغْتَاب۔

الغَبِيْرُ: چیز کا بقیہ۔ جِ اغْتَاب۔ کہا جاتا ہے "غَبِيْرُ المَرْضَى" یعنی مرض کا باقی۔

الغَبِيْرَةُ: خاکستری رنگ۔

والغَبِيْرَةُ والقَبِيْرَةُ: مٹی۔ خاک۔

الغَبِيْرُ: بقاء۔ ذابھیۃ الغَبِيْرُ: منقطع نہ ہونے والی بڑی معینیت۔ مٹی۔

الغَبِيْرَةُ: گرد۔ غبار۔

الغَبِيْرُ: گرد غبار۔ ناسور۔ جُنْحٌ غَبِيْرٌ: خراب شدہ زخم۔

الأَغْبِيُّ: خاکستری رنگ والا۔ بھیڑیا۔ جانے والا۔ کہا جاتا ہے "لَا يَقُوْنُكَ عَزْرُ الدُّنْيَا فَهَاتِنَا أَعْظَمُ" دنیا کی عزت تم کو دھوکا نہ دے اس لیے کہ وہ جانے والی ہے۔ جِ غَبِيْرٌ: سخت بھوک کی صفت میں یہ لفظ مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے

"الجُنْحُ الأَغْبِيُّ والقَبِيْرَةُ الأَحْمَرُ"۔

الغَبِيْرَةُ: مَوْتٌ أَعْظَمُ: مادہ چکور۔ زمین۔ کہا جاتا ہے "مَا أَطَلَّتِ الأَحْضُرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ الغَبِيْرَةُ" مثل فلاں پر نہ تو آسمان نے سایہ ڈالا اور نہ زمین نے اٹھایا۔ بَنُو غَبِيْرَاءُ وَبَنُو الغَبِيْرَاءِ: فقراء۔ سب سے غَبِيْرَةُ: خشک سال۔

الغَبِيْرَةُ: چھپاؤ کی شراب۔ ایک قسم کا پودہ۔

الغَبِيْرَانُ: ایک خلاف میں دو گھوڑے۔

الغَبِيْرُ: غزرا ہوا۔ باقی۔ کہا جاتا ہے "وَهُوَ غَبِيْرٌ بِنِسْبَةِ فُلَانٍ" وہ ہی فلاں کا بقیہ ہے۔ جِ غَبِيْرٌ و غَبِيْرٌ غَبِيْرُونَ: غَبِيْرُ الشَّمْسُ: چیز کا بقیہ۔ غَبِيْرُ اللَّيْلِ رات کا آخری حصہ۔ غَبِيْرُ النَّاسِ: راجحہ کے لحاظ سے آخری۔

الغَبِيْرُ: ایک قسم کی مچھلی۔

الغَبِيْرَانُ: مِنَ التَّغْلِيفِ وَغَبِيْرُهَا: گرد آلود

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

درخت خرابو نیرو۔
المَغْبُوطَةُ: وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہیں۔
غَبَسَ (ن) غَبَسًا وَأَغْبَسَ وَأَغْبَسَ
وَأَغْبَسًا: اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ صفت
(أَغْبَسَ) ج غَبَسَ۔ أَغْبَسَ الشَّيْءُ: خاکستری
رنگ کا ہونا۔

الغَبَسَةُ والغَبَسُ: خاکستری رنگ۔ رات کی
ابتدائی تاریکی۔

غَبَسَ (س) غَبَسًا وَأَغْبَسَ۔ اللَّيْلُ: رات
کی تاریکی کا صبح کی سفیدی سے مخلوط ہونا۔
تَغْبَسَةُ: دھوکا دینا۔ ظلم کرنا۔ جو باوجود عموماً کرنا۔
الغابِشُ: دھوکا باز۔ فریبی۔ ظالم۔

الغَبَسُ: رات کا بقیہ۔ آخری رات کی تاریکی
ج غَبَسًا۔

الغَبَسَةُ: رات کا بقیہ۔ لَيْلٌ (غَبَسٌ وَأَغْبَسٌ)
تاریک رات۔ وَلَيْلَةٌ غَبَسَاءٌ: ج غَبَسَ۔

غَبَسَتْ (س) غَبَسًا: العَيْنُ: ہمیشہ رونے کی
وجہ سے بہت کچھ رونے والی ہونا۔

الغَبَسُ: آنکھ کی کچھ۔ کہا جاتا ہے "لَفِي عَيْنِهِ
غَبَسٌ" اس کی آنکھ میں کچھ ہے۔

غَبَطَ (ش) غَبَطًا: الكُنْبُ: مینڈھے کا سوٹا
معلوم کرنے کیلئے ہاتھ سے ٹولنا۔

غَبَطَ (ض) بُو غَبَطًا (ف) غَبَطًا: غَبَطًا: کسی
کی نعمت کو دیکھ کر ویسا ہی اپنے لیے بھی تمنا کرنا۔
صفت (غَابَطًا) ج غَبَطًا۔

غَبَطًا: رنگ والا۔

أَغْبَطَ: الشَّحَابُ: لگا تار بارش ہونا۔ کہا جاتا
ہے "أَغْبَطَ عَلَيْنَا المَطَرُ" التَّبَاتُ: زمین کو
ڈھانپ لینا۔ أَغْبَطَتِ الحُمَى عَلَيْنَا: بخار کا
لگا تار رہنا۔

أَغْبَطَ وَأَغْبَطَ: خرشی اور اچھی حالت میں
رہنا۔

الغَبَطُ والغَبَطُ: کئی ہوئی کھیتی کے مٹنے ج
غَبُوطًا۔

الغَبِطَةُ: حسن حال 'خوش' رنگ 'پادری' کا
لقب۔

الغَبِيطُ: کجاوہ۔ پست زمین جس کے دونوں
طرف بلندی ہو۔ پانی کی لہر جو زمین کی بلندی کو

کات دے۔ ج غَبِيطًا۔

الغَبُوطُ: مِنَ التَّوْبُقِ: اُونٹنی جس کی چربی بغیر
ہاتھ سے ٹولے ہوئے معلوم نہ ہو۔

سَمَاءٌ (عَبْطِيٌّ): لگا تار بننے والا بال۔

أَرْضٌ (مُغْبَطَةٌ): نباتات سے گھری ہوئی زمین۔
الغَبِيبُ: گائے یا مرغ کے گلے کے نیچے کالکا
ہو گوشت۔

غَبِيقَةٌ (ن) ض) غَبِيقًا وَغَبِيقَةً: شام کو پینے کی چیز
بلانا۔ حَقِيقُ العَقَمِ: بکری کو شام کو بلانا یا دوہنا۔

إِعْبِيقُ: شام کو پینے کی چیز بیٹا۔ العَمْرُ:
شام کے وقت شراب بیٹا۔ (وَقَبِيقٌ) الثَّقَاةُ:

شام کے وقت دوہنا۔ (العَبِيقُ) شام کو پینے کی چیز
اور یہ بیہوش کے خلاف ہے۔ وہ جو شام کو دوہا جائے

(العَبِيقُ) والغَبِيقَةُ، اُونٹنی جو شام کو دوہی جائے۔
ج غَبِيقًا۔ تم کہتے ہو "لَقَبَيْتُهُ ذَا صَبُوحٍ وَذَا
غَبُوقٍ" یعنی میں نے صبح اور شام میں ملاقات کی۔

الغَبِيقَةُ: وہ رسی جو مل چلائے وقت تیل کے
کوہان والی کڑی کے سرے پر باندھتے ہیں۔

الغَبِيقَانُ: شام کے وقت پینے والا۔ کہا جاتا ہے

"زَجَلْتُ غَبِيقَانِ اِمْرَاةً غَبِيقِي" ج غَبِيقِي:
عَيْنُ (ن) غَبِيقًا: التَّوْبُقِ: کپڑے کو رنگ یا چھوڑا
کرنے کیلئے موڑ کر سینا۔ الزَّجَلُ: کسی کے

ساتھ اس طرح گزر جانا کہ نہ دہریکے نہ اسے علم
ہو۔ الطَّعَامُ: کھانے کو حاجت کے وقت کے
لیے چھپانا۔

غَبِيقَةٌ (ن) غَبِيقًا وَغَبِيقًا: البَيْعِ اَوِ الشَّرَاءِ:
دھوکا دینا۔ فَلَانًا: قیمت وغیرہ میں نقصان

پہنچانا۔ صفت (غَابِيسٌ) صفت مفعول (مَغْبُوتٌ)
عَيْنُ (س) غَبِيقًا وَغَبِيقًا: الشَّيْءُ وَفِيهِ: ہونا۔

ظلمی کرنا۔ (غَبِيقًا وَغَبِيقًا زَايَةً): کم سمجھ ہونا۔ کند
ذہن ہونا۔

تَغَابَرُ: بعض کا بعض کو نقصان پہنچانا۔
إِعْتَبَرُ: الشَّيْءُ: بغل میں چھپانا۔

العَيْنُ والغَبِينُ: مہ۔ خرید و فروخت میں دھوکا
۔ والغَبَانَةُ: کند ذہنی۔ بھول چوک۔

العَيْنُ: کپڑے کی کمر۔
العَابِينُ: نا۔ کام سے سستی کرنے والا۔ کام چور۔
العَيْنُ والغَبِيقَانُ: کم سمجھ۔

الغَبِيقَةُ: دھوکا۔

المُغَابَاةُ: خرید و فروخت میں نقصان۔
المَغْبِينُ: بغل۔ جسم کی لوٹ ج مغابین۔

عَيْنٌ يَغْبِي غَبَا وَغَبَاوَةً: الشَّيْءُ وَغَبَا:
نا سمجھ ہونا۔ کند ذہن ہونا۔ الشَّيْءُ عَلَيْنَا:
حقیقی رہنا۔ عِنْدَ العَبِيقِ: جاہل ہونا۔ غافل
ہونا۔ مِينَةُ الشَّيْءِ: حقیقی ہونا۔

تَغَابَى عِنْدَ تَغَابَايَا وَتَغَابَاهُ: غفلت برتنا۔
تَغَابَاهُ وَاسْتَغَابَاهُ: غبی جاننا۔ غبی سمجھنا۔

الغَبَاءُ: زمین کی پوشیدگی۔ مِنَ التَّوْبُقِ
بلند غبار۔

الغَبُوقُ والغَبُوقَةُ: غفلت۔
الغَبَاوَةُ والغَبِي: جمالت۔ نا سمجھی۔ غفلت۔

العَبِي: کم سمجھ جاہل ج غَبِيَاءٌ وَغَبَاءُ:
عَبِيٌّ تَلْبِيئَةٌ: الشَّيْءُ: چھپانا۔ الشَّعْرُ:
بال کو چھوڑنا کرنا یا جڑے یا کھینا۔

أَغْبَى: الشَّحَابُ: کم برسنا یا چھار برسنا۔
الغَبَاءُ: مِنَ التَّوْبُقِ: بلند غبار۔

الغَبِيَّةُ: کم بارش یا چھار۔
مِنَ التَّوْبُقِ: بلند غبار۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ عَلَيَّ
غَبِيَّةٌ مِنَ السَّمْسِ" یعنی آفتاب کے جانب
ہونے کے وقت آیا۔

الأغْبَى مِنَ الأَغْصَانِ: مچھان شئی۔ مَوْتٌ
غَبِيَّةٌ ج غَبِيٌّ شَجَرَةٌ غَبِيَاءٌ: مچھان درخت۔

المَغْبَاةُ: درندہ جانوروں کے ڈکار کا گڑھا ج
مغاب۔

عَتَّ (ن) عَتًّا: الطَّعَامُ اَوِ الكَلَامُ: خراب
ہونا۔ الشَّيْءُ فِي المَاءِ: پانی میں ڈوبنا۔

عَمَّكُنْ: کرنا لگا گھوٹنا۔ فَلَانًا بِالْأَمْرِ: تمکنا
اور عمل میں کرنا۔ هُ بِالْكَلامِ: سرزدش کرنا۔
عَتَّ الصَّخْلُ: ہاتھ یا کپڑا رکھ کر ہنسی روکنا

المَاءُ: برتن کے منہ سے بغیر طہیہ کے
ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی بیٹا۔

عَتَّتْ وَأَعْتَّتْ: الطَّعَامُ: کھانے کو خراب
کرنا۔ بگاڑنا۔

عَتِلَ (س) عَتِلًا: المَكَانُ: بہت درخت والا
ہونا۔ صفت (عَتِيلٌ)

أَعْتَمَ: الزِّيَارَةُ: زیادہ ملاقات کر کے طول کرنا۔

<p>جانا — الرَّجُلُ: تالاب کا پانی پینا — اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ أَعْدَرَهُ: پیچھے چھوڑنا۔ آگے بڑھ جانا۔ ہائی رکنا۔ کچھڑ میں پھینکنا۔ أَعْدَرَ اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ غَادَرَهُ غَدَارًا وَمُعَادَرَةً: چھوڑ دینا۔ ہائی رکنا۔ تَعَدَّرَ: پیچھے رہ جانا۔ اِغْتَدَرَ الرَّجُلُ: چھٹی ہونا۔ اِسْتَعْدَرَ السَّكَّانَ: تالابوں والا ہونا۔ القَدْرُ: حصہ۔ پھر والی جگہ۔ درخت والے پتھر۔ کچھڑ جو تالاب میں پانی خشک ہونے کے بعد رہ جائے۔ القَدْرُ والقَدْرَةُ والقَدْرَةُ: جو چھوڑا جائے۔ القَدِيرُ: نمر۔ تالاب۔ پانی جس کو سیلاب چھوڑ جائے۔ سبزی کا کٹلا۔ ج غَدَّرَ وَغَدَّرَ وَغَدَّرَانَ وَأَغْدَرَ۔ القَدِيرَةُ: چھٹی ہونے والا۔ القَدِيرَةُ: سبزی کا کٹلا۔ ج غَدَّرَانَ۔ القَادِرُ: قا۔ خیانت کرنے والا۔ ج غَادِرُونَ وَ غَدَرَةٌ وَغَدَارٌ مَوْتٌ غَادِرَةٌ ج غَادِرَاتٍ وَغَوَادِرُ۔ القَدْرَاءُ: تاریکی۔ لَيْلَةٌ (غَدْرَاءٌ وَغَدِيرَةٌ وَمُغْدِرَةٌ) تاریک رات۔ القَدْرُ والقَدْرَةُ والقَدِيرُ والقَدِيرَةُ والقَدِيرُ: بہت ندر کرنے والا۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ غَدْرٌ وَإِمْرَأَةٌ غَدْرٌ“۔ ج غَدْرُ۔ اور مذکر کی گلی میں یا غَدْرٌ بمعنی یا غَادِرًا اور معنی میں یا آل غَدْرٍ مستعمل ہے۔ يَأْغَدِرُ: مہنی علی الکسرة۔ عورت کی گلی میں مستعمل ہے۔ غَدْفٌ (ن) غَدْفًا وَغَدْفٌ: لُحْيُ القَطَا: بہت ہونا۔ أَعْدَفَ اللَّيْلُ: رات کا بہت تاریک ہونا الشُّبْكَةُ عَلَى الصَّيْدِ: شکار پر چال ڈالنا النُّجْرُ: سندر کا بہت لہروں والا ہونا — القَرَاةُ لِقَاعِهَا عَلَى وَجْهِهَا: عورت کا چہرہ پر نقاب ڈالنا۔</p>	<p>المغفر والمغفار والمغفور۔ بعض درختوں کا گونج مغفائر۔ أَرْضٌ (مغفورة) سبزہ سے لہلہانے والی زمین۔ غَمَمٌ (ن) غَمَمًا: یکبارگی عمدہ مال دینا۔ الغَيْمَةُ: اوجھ کا وہ حصہ۔ جس میں بہت سے پرت ہوتے ہیں۔ الغَيْمَةُ: سیاہی مائل سفید رنگ۔ الإغَمُّ: سیاہی مائل سفید رنگ والا۔ المغشوم: مخلوط۔ الغَيْمَةُ: ایک قسم کا کھانا جس میں ٹڈی پڑتی ہے۔ غَفَا يَغْفُو غَفْوًا وَغَفْوًا أَوْ غَفَى: الوادی: زیادہ کوڑے کرکٹ والی ہوتا۔ السَّبِيلُ المَرْتَعُ: سیلاب کا چر اگاہ کوہ مزہ ہونا۔ الغَاءُ والغَاءُ: جھاگ۔ کوڑا کرکٹ جو سیلاب کی جھاگ سے ملتا ہوا ہو۔ غَفَى يَغْفِي غَفِيًا: الوادی: زیادہ کوڑے کرکٹ والی ہونا — الکَلَامُ: مخلوط کرنا۔ غَفَّتْ تَغْفِي غَفِيًا وَغَفِيًا وَتَغَفَّتِ التَّفْطُّ: مثل آء غَفَّتِ السَّمَاءُ بِالسَّحَابِ: آسمان پر بادل چھا جانا۔ غَفَى يَغْفِي غَفِيًا: الکَلَامُ: مخلوط کرنا۔ غَدَّ (س) غَدًّا وَغَدًّا: اُونٹ کا ندر دودلا ہونا۔ غَدَّ وَغَدَّ وَغَدَّ وَأَغَدَّ: ندر دودلا ہونا۔ صفت (مُغِدٌّ)۔ غَدَّدَ نَصِيْبُهُ: حصہ لینا۔ أَعَدَّ: ندر دودلا ہونا۔ عَلِيَّةٌ: غنم سے چھوڑنا۔ القَدَدُ: اُونٹوں کا طاعون۔ ج غَدَادُ۔ القُدَّةُ: بل کا ایک حصہ۔ سامان ج غَدَائِدُ۔ والقُدَّةُ: اُونٹوں کا طاعون گوشت کا سخت کٹلا جو مرض کی وجہ سے کھال اور گوشت کے درمیان پیدا ہوا جاتا ہے۔ ج غَدَّدُو غَدَائِدُ۔ المِغْدَادُ: بہت غصہ ناک (مذکر مؤنث) غَدَّرَ (ن) ض (س) غَدَّرًا وَغَدَّرًا: خیانت کرنا۔ عمد توڑنا۔ غَدَّرَ (س) غَدَّرًا السَّكَّانَ: بہت پھر والا ہونا غَرَّ أَصْحَابَهُ: اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ</p>	<p>القسم۔ سخت گرمی جس سے دم گھٹے۔ الغَيْمَةُ: منگھوں میں رکاوٹ۔ الأغتم والغيمى۔ جو اچھی طرح منگھوں کر سکے۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ أَغْتَمَ وَقَوْمٌ غَتَمَ وَأَغْتَامُوا وَإِمْرَأَةٌ غَتَمَاءُ“۔ غَفَّتِ (ض-س) غَفَاةً وَغَفْوَةً الشَّاةُ: بکری کا دپلا ہونا۔ کمزور ہونا۔ صفت (غَفَّةٌ) — اللُّحْمُ: لاغر ہونا — حَدِيثُ القَوْمِ ردى ہونا۔ ناسد ہونا۔ غَتَّ (ض) غَفًا وَغَفِيًا: عَلِيَّةُ السَّكَّانِ: ناموافق ہونا — الجُرْحُ: زخم سے پیپ وغیرہ برتا۔ کہا جاتا ہے ”فُلَانٌ لَا يَغْتُ عَلِيَّةً شَيْءٌ“ یعنی کسی چیز کے متعلق نہیں کہتا کہ وہ روى ہے تاکہ اس کو چھوڑے۔ أَعَفَّ: ڈبلا ہونا۔ ناسد ہونا۔ فَنِ الكَلَامِ: بیکار منگھو کرنا — اللُّحْمُ: ڈبلا گوشت خریدنا۔ اِغْتَلَّتِ الغَيْلُ: موسم بیمار کی گھاس پر پھینچنا۔ تَغَلَّتِ الشَّيْءُ: کم سمجھنا۔ اِسْتَعَفَّ: الجُرْحُ: علاج کر کے پیپ وغیرہ کھانا۔ القَفْتُ: ڈبلا۔ مِنَ الكَلَامِ: روى کلام۔ الغَيْبَةُ: ڈبلا۔ غَفِيَتْ الجُرْحُ وَغَفِيَتْهُ: پیپ بخون وغیرہ۔ الغَيْبَةُ: بے ناکہ چیز۔ محل کالتور۔ غَفَّرَ (ن) غَفَّرًا: السَّكَّانَ بِالتَّيْبَاتِ: سبزی سے لہلہانا۔ أَغْفَرُ: الشَّجَرُ: درخت سے گوہر برتا۔ اِغْفَارًا: القَوْبُ: زیادہ رواں والا ہونا۔ صفت (أَغْفَرُ) الغَفْرُ: کپڑے کا زواں والا ہونا۔ الغَفْرُ والغَفْرَةُ والغَفْرَاءُ والغَفْرَةُ: کینے لوگ۔ الغَفْرَةُ: ار زانی ورتو تازگی۔ الغَفْرَةُ: سبزی مائل بھورا یا سرخ رنگ۔ الأَغْفَرُ: سبزی مائل بھورا یا سرخ رنگ والا۔ مؤنث (غَفْرَاءُ) ج غَفْرُ: زیادہ اون کا میل۔ شیر بھیرا۔ کچھڑ۔ چال۔</p>
---	---	--

اغْتَدَفَ مِنْهُ: زیادہ لے لینا۔ القُوب: کپڑا کا تار۔
 اِغْدُوْدَفَ: اللیل، رات کا آنا۔ تاریک ہونا۔
 الغادِف: طارح۔
 الغداف: لبا کالا ہال۔ سیاہ بازو۔ بڑا کوا۔ بڑا گدھ۔ ج غَدْفَان۔
 الغدَف: نعمت۔ ارزانی۔ تروتازگی۔ کہا جاتا ہے "هُم فِی غَدَفٍ" وہ لوگ خوش حالی میں ہیں۔
 المِغْدَفُ والغادُوف: چپو۔
 العِدْفَل: کال۔ لبا۔ بوسے ذیل ڈول کا اونٹ ج غَدْفَال۔
 غَدِق (س) غَدَقًا وَاغْدَقَ وَاغْدُوْدَقَ: المَطْر: بگھرت بارش ہونا۔ عَيْنُ الْمَاءِ: کبیر ہونا اور خوشگوار ہونا۔ صفت (غَدَقَة) اَغْدَقَ الْعَيْشُ: آسودہ ہونا۔ اَغْدَقَتِ الْأَرْضُ: زمین کا سرسبز ہونا۔
 غَدَقَ (ض) غَدَقًا الْمَكَانُ: بارش سے تر ہونا اور سرسبز ہونا۔ صفت (غَدِيق) تَغْدَنُ الْعُضُنُ: شیشی کا جھلنا۔
 اِغْدُوْدَنُ: التَّيْبُ: سبز ہونا اور زیادتی و شادابی کی وجہ سے سیاہی کی طرف مائل ہونا۔
 الرَّجُلُ: ڈھیلا ہونا اور گرنا۔ الشَّعْرُ: لبا ہونا اور لپٹا ہونا (غَدُوْدَن) الغَدَنُ: نیوہ۔ اوگم۔ ڈھیلا پن، سستی۔ والغَدَنَةُ: نری۔ نزاکت۔
 الغَدَانُ: شاخ جس پر کپڑے لٹکائے جائیں۔ الغَدَانِي: نازک بدن جوان۔
 غَدَا يَغْدُو غَدُوًّا: صبح کے وقت جانا۔ جانا۔ اور صار کے معنی میں مستعمل ہے۔ جتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔
 غَدَا يَغْدُو غَدُوًّا وَاغْدُوْدَةً: عَلَيْهِ: سویرے آنا۔
 غَدِي يَغْدِي غَدًا وَتَغْدِي: صبح کا کھانا کھانا۔ کہا جاتا ہے "عَلَّ لَكَ أَنْ تَغْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْدِي بِنَا" یعنی کیا تمہارے لیے یہ امکان ہے کہ ہم کو ہلاک کرنے سے پہلے اس کو ہلاک کرے۔
 غَدِي الرَّجُلُ: دن کے ابتدائی حصہ میں کھانا۔

غَادِي مَغَادَةً: الرَّجُلُ: صبح کے وقت آنا۔
 الغد- آئندہ کل۔ دور کا دن جس کا انتظار ہو۔ نسبت کے لیے (غَدِي وَاغْدِي) الغدوة: صبح، فجر اور طلوع آفتاب کا درمیان دن کا ابتدائی حصہ ج غَدُو وَاغْدُو۔
 الغدأة: صبح، فجر اور طلوع آفتاب کا درمیان دن کا ابتدائی حصہ ج غَدُوَات کہا جاتا ہے "هُوَ ابْنُ غَدَاتَيْنِ" یعنی وہ دو دن کا ہے۔
 الغدِيَّة: بمعنی غَدُوَّة وَاغْدَاءُ ج غَدَاتِهَا وَغَدِيَّاتِهَا۔
 الغدِيَّة: غدا کی تصریح۔
 الغدَاء: صبح کا کھانا اور اس کے مقابل عَشَاء ہے ج اَغْدِيَّة۔
 الغدای: فا۔ شیر۔
 الغادِيَّة مؤنث غادِي: ہاؤل جو صبح کے وقت اٹھے۔ صبح کی بارش۔ ج غَوَادِي وَاغَوَادِي۔
 الغدِيَان: صبح کا کھانا کھانے والا۔ مؤنث غَدِيَا۔
 المتغْدِي والمتغْدَاة: صبح کو جانے کی جگہ۔
 غَدَّ (ن ض) غَدًّا: الشَّيْءُ: کم کرنا۔ گھٹانا۔ الخُرْجُ: خون پیپ وغیرہ جاری ہونا۔
 اَغْدَا وَاغْدَاؤًا: السَّنِيْرُ وَفِي السَّنِيْرِ: چلنے میں جلدی کرنا۔ الخُرْجُ: خون، پیپ وغیرہ جاری ہونا۔
 الغادُّ فا۔ آٹکھ کی رگ جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ح۔
 الغدِيَّة: زخم کا خون پیپ وغیرہ۔
 غَدَمَ (ن) غَدَمًا: لَهُ مِنَ الصَّالِ: یکبارگی عمدہ مال دینا۔
 وَغَدِمَ (س) غَدَمًا وَتَغَدَّمَ وَاغْتَدَّمَ الشَّيْءُ: بست حرص سے کھانا۔
 اَغْدَمَ وَتَغَدَّمَ الْفَصِيْلُ مَا فِي حَضْرَةِ اَمِيَّة: اونٹنی کے پڑے کاٹھن سے سب دودھ پی لیتا۔
 الغدْمَة: مال کا ایک حصہ۔ ج غَدَمٌ وَالغَدْمَة: بست دودھ۔ ج غَدَمٌ بِمَنْعِ غَدِيَّةٍ وَسَبْعِ تَوَالٍ۔
 الغدْم وَالتَّغْدِمُ: بست زیادہ کھانے والا۔
 غَدَمَرٌ غَدَمَرَةٌ: غمبٹاک ہونا۔
 الشَّيْءُ: جدا جدا کرنا۔ بعض کو بعض سے ملانا۔

انگل سے پینا۔
 تَغْدَمَرُ فِي الْمَجْلِسِ: غم سے چلانا۔
 الغدْمَرَة: مص۔ شور۔ ڈانٹ۔ گنگو اور چچ کا ٹھوٹا ہونا۔ ج غَدَمِيْر۔
 غَدَا يَغْدُو وَاغْدُوًّا: الرَّجُلُ بِالطَّلْعَامِ: خوراک دینا۔ الطَّلْعَامُ الصَّبِيءُ: بچہ کو فائدہ دینا اور کافی ہونا۔ العَرْقُ: خون بہانا۔
 الرَّجُلُ: جلدی کرنا۔ الفَرَسُ: تیز گھڑا۔
 غَدِي تَغْلِيَّةٌ: الرَّجُلُ: غدا دینا۔ پرورش کرنا۔ غَدِي العَرْقُ: خون بہانا۔
 تَغْدِي تَغْدِيًا وَاغْتَدِي اَغْدَاءًا: خوراک کھانا۔
 اِسْتغْدِي اِسْتغْدِيًا: الرَّجُلُ: سخت پچھاڑنا۔
 الغدَاء: خوراک۔ ج اَغْدِيَّة۔
 الغادِي: فا۔ غادِي الصَّالِ: مال کا انتظم۔ ج غَدَاة وَاغْدَاؤُن مؤنث غادِيَّة ج غَوَادِي۔
 الاغْدِي: اسم تفضیل۔
 الغدِي: رحم کا پتہ (کبری کیلئے خاص ہے) ج غَدَاء: جانوروں کے پھوٹے چھوٹے پتے۔
 الغدُوِي: رحم کا پتہ۔
 الغدُوَان: بد زبان۔ تیز رفتار گھوڑا۔
 غَوْرَةٌ (ن) غَوْرًا وَغَوْرَةً وَغَوْرًا: دھوکا دینا۔
 یہودہ امید دلانا۔ کہا جاتا ہے "مَا غَوْرَكَ بِفُلَانٍ" یعنی تو نے اس پر دلیری کیوں کر کی؟ غَوْرًا: پالی گراتا۔
 غَوْرًا وَغَوْرًا: الطَّائِرُ فَرِحَ: پرندہ کا اپنے پتے کو چوگانا۔ الرَّجُلُ: غرغر پرندہ کھانا۔
 الزاجِي: اونٹ کو جانا۔ الماعِظَالِي کا تباب ہونا۔
 غَوْرًا (ن) غَوْرًا وَغَوْرًا وَغَوْرًا (س) غَوْرًا: شریف ہونا۔ نا تجربہ کار ہونا۔
 غَوْرًا (ض) غَوْرًا وَغَوْرًا: تجربہ کے باوجود تجربوں جیسا کام کرنا۔
 غَوْرًا (س) غَوْرًا وَغَوْرَةً وَغَوْرَةَ التَّوَجُّهَ: خوبصورت سفید رنگ والا ہونا۔ الشَّيْءُ: سفید ہونا۔
 غَوْرٌ تَغْرِيزًا وَتَغَوْرَةٌ: بِالشَّيْءِ: ہلاکت کیلئے پیش کرنا۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا اڑنے کیلئے چر

پھیلا نا۔ القزوة: ملک بھرنا۔ عَزَّوَت تَّيْبَةُ
الغلام: بچے کے اگلے دانت لگانا۔
عَزَّوَت عَزَّوَا وَ مَغَاوَةَ السُّوْفِي: بازار کا نام
پڑ جانا۔ عَزَّوَت التَّحِيَّة: کم کرنا۔ عَزَّوَت النَّاقَةِ:
اونٹنی کا دودھ کم ہونا۔
تَعَزَّوَت الفرس: گھوڑے کی پیشانی سفید ہونا۔
اِعْتَزَّوَتِ اسْتَعَزَّوَت: بگڑنا۔ دھوکا کھانا۔
اِعْتَزَّوَتُهُ وَ اسْتَعَزَّوَتُهُ: بے خبری میں آنا۔ وَ اِعْتَزَّوَتُهُ:
بے خبری کا طالب ہونا۔
العزوة: زمین میں شگاف۔ کپڑے یا کمال کی
شکل۔ کہا جاتا ہے "طوبت الفرس علی غره"
یعنی میں نے کپڑے کو اس کی پہلی تہ پر لپیٹا۔
چھوٹی ندی ج عَزَّوَر۔
العزوة والعزوار: تلوار کی دھار۔ العزوار: نیند
وغیرہ کی کمی۔ کساد بازاری۔ اونٹنی کے دودھ کی
کمی ج اِعْزَوَةٌ کہا جاتا ہے "أَنَا عَلِيٌّ عَزَّوَانٌ" یعنی
وہ ہمارے پاس جلدی آیا۔ العزوار: تیربانے کا
نمونہ اور اسی سے ہے "هَمَّ عَلِيٌّ عَزَّوَانٌ وَ اِحْبِلْ"
یعنی وہ ایک جیسے ہیں۔ کہا جاتا ہے "وَلَدَّتْ ثَلَاثَةَ
بَنِيْنَ عَلِيٍّ عَزَّوَانٌ" یعنی اس نے تین بیٹے پئے
دوڑے پئے جن کے درمیان کوئی لڑکی نہیں۔
"لَبِثَ الْقَوْمُ عَزَّوَانٌ شَهْرًا" قوم ایک مہینہ کی
مدت ٹھہری رہی۔
العزوة: غفلت۔ نو عمری۔ کہا جاتا ہے "کمان
ذلک علی عرارتی" یعنی یہ میری نو عمری کے
زمانہ میں تھا۔
العزوة: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔
مِنْ كَلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا ابتدائی اور معلوم حصہ۔
مِنْ الْقَوْمِ: شریف۔ مِنْ الزَّجْلِ: چوہہ۔
چوہہ روشنی یا صبح ظاہر ہو تو کہا جاتا ہے قَدْ بَدَتْ
عَزْوَتُهُ غلام۔ باندی۔ ج عَزَّوَر۔ العزوة: مہینہ کی
ابتدائی تین راتیں یعنی پہلی، دوسری، تیسری
رات۔ عرب: مہینے کی تقسیم تین تین راتوں سے
کرتے تھے کہ پہلی تین راتوں کو عَزَّوَر دوسری
تین راتوں کو نفل اور اس کے بعد تسع پھر عشر
پھر یثع پھر دَرَج پھر ظَلَم پھر حَتَّاد س پھر
وَ اِدْبِی پھر حَقَّاق کہتے ہیں۔
العزوة: تاجرہ کار جو ان۔ مَوْنَت عَزَّوَتُهُ ج

اِعْزَوَانٌ۔
العزوة: اپنے قبیلہ میں سردار عورت۔
العزوة: مہ۔ غفلت۔ تاجرہ کاروں کی جماعت۔
ج عَزَّوَر۔
العزوة: مہینے کا پہلا دن۔ ایک کالے رنگ کا آبی
پرنڈہ۔
العزوة: ہلاکت کے دوڑے۔ کہا جاتا ہے "أَنَا عَزَّوَرٌ
بِئْسَتْ" میں تم سے دھوکے میں ہوں۔
العزوة: دھوکا دینا اور یہ دنیا کی صفت میں بھی
آتا ہے۔ کہا جاتا ہے "الذین العزوة" غرغری کی
دوا میں۔
العزوة: مہ۔ بیوہ باتیں۔
العزوة: فاضل۔ کنواں کھودنے والا۔ مَوْنَت
عَزَّوَتُهُ۔
العزوة: بہت دھوکہ دینے والا۔
العزوة: اچھی عادت اور اسی سے مثل ہے "أَذْ
بَرَّ عَزَّوَتُهُ وَأَحْبَلْ هَزَّوَتُهُ" یعنی اس کی اچھی
عادت جاتی رہی اور بری عادت آگئی۔ اچھی زندگی۔
ج عَزَّوَانٌ۔ ضامن۔ دھوکازدہ۔ تاجرہ کار جو ان۔ ج
اِعْزَوَةٌ وَ اِعْزَوَاءٌ مَوْنَت عَزَّوَتُهُ ج عَزَّوَتَاتُ
وَ عَزَّوَانِیُّو۔
العزوة: کتے اور بلی کے درمیان چھوٹی ٹانگوں کا
بھورے رنگ کا ایک جانور اور عرب کے امثال
میں ہے "أَسْنَنُ مِنْ عَزَّوَانِ" اور اس کا نام بغر اور
عَزَّوَر بھی ہے۔
الأعزوة: خوبصورت۔ ہر چیز کا سفید۔ فیاض۔
سردار شریف۔ مِنْ الْأَقَامِ: سخت گرم دن۔
مِنْ الْغَبِيلِ: پیشانی پر سفیدی والا۔ مَوْنَت عَزَّوَاءُ
ج عَزَّوَتُ عَزَّوَانِ۔
العزوة: بورا۔ تھیلا۔ ج عَزَّوَانِیُّو۔
العزوة: پالی کے بلبلے۔ کہا جاتا ہے "أَقْبَلِ الْمَاءُ
بِغَزَّوَانِهِ" پالی بلبلے کے ساتھ آیا۔
الشعازة: کم دودھ والی اونٹنی۔ ج عَزَّوَانٌ۔ کہا جاتا
ہے "فَلَانٌ مُغَاوَرٌ الْكَفِّ" یعنی بخیل ہے۔
المغزوة: مہ۔ فریب خوردہ۔
عزوة (ن) عَزَّوَانٌ۔ جانا۔ فُلَانٌ عَسَا: جدا
ہونا۔ علیحدہ ہونا۔ فِی سَفَرِهِ: طویل سفر کرنا۔
عزوة (و) الرجل: دور ہونا۔ النجم:

ستارہ کا نائب ہونا۔ ذوبنا۔
عزوة (ن) عَزَّوَانٌ وَ عَزَّوَانَةٌ: پڑوسی
ہونا۔ وطن سے علیحدہ ہونا۔
عزوة (ک) عَزَّوَانَةٌ: الکلام: مخفی ہونا۔
پوشیدہ ہونا۔ الشئی: غیر مانوس ہونا۔
عزوة (س) عَزَّوَانٌ: لوسے چہرہ کالا ہونا۔
عزوة: دور ہونا۔ وطن سے علیحدہ ہونا۔ ہجرت
میں بیچنا۔ ع: دور کرنا۔ علیحدہ کرنا۔ مسافرت
پر برا لگینا۔ کرنا۔ جلا وطن کرنا۔ فِی الْأَرْضِ:
دور تک لے جانا۔
أعزوب: مغرب میں جانا۔ شہر میں دور تک
جانا۔ اچھی حالت ہونا۔ عجیب چیز لانا۔ فصیح ہونا اور
نوادرات بیان کرنا۔ فِی الصَّخْلِ وَ
نَحْوِهِ: مبالغہ کرنا۔ الحوض: حوض کو
بھرنا۔ الفرس: گھوڑے کا بہت
دوڑنا۔ الفرس: گھوڑے کو دوڑانا۔ یہاں
تک کہ مر جائے۔ ع: علیحدہ کرنا۔ أعزوب
وَ أعزوب المتوینض: تکلیف زیادہ ہونا۔ أعزوب
علیہ وہ: بڑا سلوک کرنا۔
تَعَزَّوَتِ وَ طِنِ سے علیحدہ ہونا۔ ہجرت سے آنا۔
اِعْتَزَّوَتِ وَ طِنِ سے علیحدہ ہونا۔ غیر اقارب
میں شادی کرنا۔
اِسْتَعَزَّوَتِ الشئی: یاد پانا یا سمجھنا۔
الدَّفْعُ: آنسو بنانا۔
وَ اِسْتَعَزَّوَتِ وَ طِنِ سے ہٹنے میں
مبالغہ کرنا۔
العزوب: مہ۔ ہجرت۔ ہر چیز کا اول۔ دھار۔ نشاط۔
تیزی۔ کہا جاتا ہے "إِنِّي أَخَافُ عَلَيْنِكَ عَزَّوَتِ
الشَّيْبِ" یعنی جوانی کی تیزی اور نشاط کا مجھے
تمہارے اوپر خوف ہے۔ بڑا ڈول۔ آکھ کی وہ
رگ جو ہمیشہ جاری رہے۔ آنسو۔ آنسو پھینکے کی
جگہ۔ آکھ کا اگا حصہ۔ آکھ کا پچھلا حصہ۔ دوری۔
آکھ کی پھنسی۔ گوشہ چشم کا ورم۔ تھوک کی
کثرت۔ تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے
"سَهْمٌ عَزَّوَبٌ" اضافت سے اور "سَهْمٌ
عَزَّوَبٌ" وصف سے یعنی وہ تیر جس کا پھینکنے والا
معلوم نہ ہو۔ ج عَزَّوَبٌ۔
العزوة: دوری۔

<p>السَّيْرُ: رواه في كى قريب ہوتا۔ سوار ہوتا۔ الزواكب وجلہ فی الغرؤز: سوار کارکب میں پاؤں رکھنا۔</p>	<p>الغرضی: ممالک مغرب کی طرف منسوب۔ ج۔ مغاربة۔ الغرضیب: سخت سیاہ اور اکثر بطور تاکید مستعمل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ غَرْيِبٍ" غَرْيِبٌ غَرْيَبَةٌ الْجَنَّةُ: کیسوں چھاننا۔</p>	<p>الغَرْبُ: مہ۔ سونا۔ چاندی۔ پالہ۔ شراب۔ پانی جو کونکس اور حوض کے درمیان ڈول سے نکلے۔ کہا جاتا ہے "سَهْمٌ غَرْبٌ وَسَهْمٌ غَرْبٌ" وہ تیر جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔ "بَغِيْبُهُ غَرْبٌ" جبکہ آنسو تھمتانہ ہو۔</p>
<p>الغَرْوُ: مہ۔ رکاب۔ زمین میں گاڑی ہوئی کھڑی۔ ج۔ غَرْوُز۔ کہا جاتا ہے "الزَّمُّ غَرْوُزٌ فَلَاكُنْ" یعنی اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو۔ "أَشْدُّ بِذَلِكَ بِغَرْوِهِ" مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو۔</p>	<p>_____ التَّلْدُ: ملک کے رہنے والوں کا حال کھولنا۔ _____ فِي الْأَرْضِ: جانا۔ الشَّيْءُ: کلمے کلمے کرنا۔ جدا جدا کرنا۔ الْقَوْمُ: قوم کو قتل کرنا اور بچل دینا۔</p>	<p>الغَرْابُ: کوا۔ مختلف قسمیں ہیں۔ غراب اسود۔ البقع۔ زاغ۔ رخ۔ غَرْبٌ وَغَرْبٌ وَغَرْبَانٌ وَأُغْرِبَةٌ نَجَّحَ غَرْابِيْنٌ۔ کہا جاتا ہے "ظَارٌ غَرْابِيٌّ" یعنی بوڑھا ہو گیا اس کے بال سفید ہو گئے۔ وَأَرْضٌ لَا يَطِيْرُ غَرْابِيْهَا یعنی سرسبز ہے۔ الغَرْابُ اولہ و برف۔ سرکا پھیلا حصہ۔ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کی ابتداء۔ اور دھار۔ جیسے غَرْابٌ الفاسِ۔ اور کوسے کی مثال سیاہی اور بعد اور صُحُ سوریے لٹنے اور چونکارنے میں دی جاتی ہے۔</p>
<p>الغَرْوَةُ: طبعیت ج۔ غَرْابِيْز۔ الغَارِزُ: قا۔ اوٹنی جس کا دودھ کم ہو گیا ہو۔ غَيْرِزٌ (غَوَارِزٌ) نہ بننے والے تھمے۔ التغْرِيزُ: مجبور کا پورا جو ایک جگہ سے منتقل کر کے دوسری جگہ لگایا جائے۔ ج۔ تغَارِيزُ۔ المغْرِوُزُ: گاڑنے کی جگہ۔ ج۔ مغَارِزُ۔ غَرْوَسٌ (ض) غَرْوَسٌ وَغَرْوَسَةُ الشَّجَرِ: درخت کا پودہ لگانا۔ إِنغَرْوَسُ: پودہ لگانا۔</p>	<p>_____ فِي الْأَرْضِ: جانا۔ الشَّيْءُ: کلمے کلمے کرنا۔ جدا جدا کرنا۔ الْقَوْمُ: قوم کو قتل کرنا اور بچل دینا۔ الغَرْابِيْلُ: چھلی۔ ذ۔ ف۔ چغل خور ج۔ غَرْابِيْلُ۔ الْمَغْرَبِيْلُ: شہ۔ گھٹیا۔ پھولا ہوا۔ متحول۔ زوال پزیر ملک۔ الغَرْابِيْلُ: چھلی۔ ذ۔ ف۔ چغل خور۔ غَرْبٌ (س) غَرْبًا: بھوکا ہونا۔</p>	<p>سویے لٹنے اور چونکارنے میں دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے "بَكَرْتُ بِكُفْرٍ الْغَرْابِ" کوسے کی مانند صُحُ سوریے اٹھا۔ "فَلَاكُنْ أَخَذَ مِنْ الْغَرْابِ" فلاں کوسے سے زیادہ چونکا ہے۔ وَ "ذُوْنٌ هَذَا شَيْبُ الْغَرْابِ" اس سے کم کوسے کی سیاہی ہے أُغْرِبَةُ الْغَرْبِ: عرب کے سیاہ لوگ۔ الْغَرْابُ: پرانی قسم کی ایک کشتی۔ الغَرْابَانُ: دونوں سرین کے محلے جسے جو ران سے لے ہوئے ہوں۔</p>
<p>الغَرْوَسُ: مہ۔ پودہ لگایا ہوا ج۔ غَرْوَسٌ وَأغْرَاسُ۔ الغَرْوَسُ: پودہ۔ پانی جو رحم سے نکلے۔ چھوٹا کوا۔ ج۔ أغْرَاسُ۔ الغَرْوَسُ: پودہ لگایا ہوا۔ بیج۔ الغَرْوَسَةُ: مجبور کا پورا جو ابھی آگاہ۔ ستمیلی جو بوئی جائے۔ انگریز کی مثل جو ابھی بخالی گئی ہو۔ پودہ بھانے سے پھلدار ہونے تک۔ ج۔ غَرْوَالِيسُ وَغْرَاسُ۔</p>	<p>صفت (غَرْوَانٌ) ج۔ غَرْوِيٌّ وَغَرْوَانِيٌّ وَغَرْوَاتٌ مَوْتٌ (غَرْوِيٌّ) ج۔ غَرْوَاتٌ۔ غَرْوَاتٌ الْكَلْبُ: کتے کو بھوکا رکھنا۔ الغَرْوُ وَالغَارُ: بھوکا۔ غَرْوَةٌ (س) غَرْوًا وَغَرْوَةٌ وَتَغْرُوْدٌ: الظَّائِرُ: پرندہ کا گانے میں آواز بلند کرنا اور ٹھکری کرنا۔ غَرْوَةٌ الظَّائِرُ: گا کر خوش کرنا۔ إِسْتغْرُوْدَةٌ: گانے پر برا لگینے کرنا۔ الأغْرُوْدُ وَالْأغْرُوْدَةُ: پرندہ کی سرلی آواز ج۔ آغَارِيْدُ۔ الغَرْوُ وَالغَرْوُ وَالغَرْوُ: گانے والا۔ غَرْوَةٌ (ض) غَرْوًا: پالانچہ و نگوہا: سوئی وغیرہ چھوٹا۔ غَرْوَاتُ الْإِبْرَةِ فِي الشَّيْءِ: داخل کرنا۔</p>	<p>الغَارِبُ: قا۔ کندھا۔ پیٹھ اور گردن یا کوبان اور گردن کے درمیان کے حصہ۔ ہر چیز کا اعلیٰ حصہ۔ ج۔ غَوَارِبٌ اور اسی سے ہے۔ غَوَارِبُ الْمَاءِ بِلَدٍ مَوْجِسٍ۔</p>
<p>الغَرْوَسُ: پودہ۔ پودہ لگانے کا وقت۔ کہا جاتا ہے "هَذَا زَمَنُ الْغَرْوَسِ" جس طرح کہا جاتا ہے "هَذَا زَمَنُ الْحَصَادِ" المغْرَاسُ: پودہ لگانے کی جگہ ج۔ مغَارِاسُ۔ الغَرْوَسُ: مِنَ الْمَسْكُوْكَاتِ: ایک سکہ ہے جو دو آنے کے مساوی ہوتا ہے۔ ج۔ غَرْوُشُ۔ غَرْوَسٌ (س) غَرْوَسًا: اَلْيَبُ: مشتاق ہونا۔ صفت (غَرْوَسٌ) _____ مِنْهُ: تنگ دل ہونا۔ طول ہونا۔ خوف کرنا۔ غَرْوَسٌ (ض) غَرْوَسًا: الإِنَاءُ: برتن بھرنا۔ کم بھرنا۔ الشَّيْءُ: تازہ چھنا۔ وقت سے جلدی</p>	<p>غَرْوَاتٌ الْكَلْبُ: کتے کو بھوکا رکھنا۔ الغَرْوُ وَالغَارُ: بھوکا۔ غَرْوَةٌ (س) غَرْوًا وَغَرْوَةٌ وَتَغْرُوْدٌ: الظَّائِرُ: پرندہ کا گانے میں آواز بلند کرنا اور ٹھکری کرنا۔ غَرْوَةٌ الظَّائِرُ: گا کر خوش کرنا۔ إِسْتغْرُوْدَةٌ: گانے پر برا لگینے کرنا۔ الأغْرُوْدُ وَالْأغْرُوْدَةُ: پرندہ کی سرلی آواز ج۔ آغَارِيْدُ۔ الغَرْوُ وَالغَرْوُ وَالغَرْوُ: گانے والا۔ غَرْوَةٌ (ض) غَرْوًا: پالانچہ و نگوہا: سوئی وغیرہ چھوٹا۔ غَرْوَاتُ الْإِبْرَةِ فِي الشَّيْءِ: داخل کرنا۔ غَرْوَاتٌ الْمَجْرَادَةُ: انڈا دینے کے لیے رین میں ڈم چھوٹا۔ الغَنَمُ: بکری کو موٹی ہونے کے لیے دوہنے سے چھوڑ دینا۔ أغْرَوُ الْإِبْرَةِ: بمعنی غَرْوُ الْوَادِي: غرز نامی پودہ آگاہا _____ فِي الشَّيْءِ: داخل ہونا۔ إِغْتَرَوُ السَّيْرُ: رواہ گی قریب ہونا _____ فَلَاكُنْ</p>	<p>الغَرْبُ: بمعنی غریب۔ المغْرِبُ: صُحُ۔ ہر سفید چیز یا جس کے کنارے سفید ہوں۔ عُنُقَاءُ (مغْرِبٌ وَ مَغْرِبَةٌ) دیکھنے لفظ "عُنُقَاءُ" المغْرِبُ: بچم۔ آفتاب غروب ہونے کی جگہ۔ ممالک افریقیہ اور یزبان حال ممالک یورپ۔ مغْرِبَانُ: الشَّمْسُ: آفتاب کے طلوع و غروب کی جگہ۔</p>

کرنا۔ روکنا۔ توڑنا اس طرح کہ جدانہ ہو جائے)
 غَرِيضًا لَهٗ : تازہ دودھ پلانا۔
 غَرَضٌ (ک) غَرَضًا : اللَّحْمُ : گوشت تازہ
 ہونا۔ صفت (غَرِيضٌ) جِ غَرَضٍ : گوشت تازہ
 غَرَضٌ : مزاج کرنا۔ تازہ گوشت کھانا۔
 الشَّيْءُ : تازہ چٹا۔ فَيَسْقَاهُ : منگ
 میں نہ بھرا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَسْقُوهُ لَا يَغْرَضُ"
 یعنی فلاں آدمی سمندر کی مانند ہے جو خالی نہیں کیا
 جاسکتا۔ غَرَضٌ فَلَانًا : نشانہ بنانا۔
 اغْرَضُ : فَلَانًا : تنگ دل کرنا۔
 الغَرَضُ : نشانہ پر ٹھیک مارنا۔ الإِنَاءُ : برتن
 بھرا۔
 غَارَضٌ : الإِبِلُ : اونٹوں کو ترے کے گھاٹ پر
 لے جانا۔
 تَغْرَضُ وَغَرَضًا : الغَضُّ : شاخ کا ٹھنڈا اور
 ٹوٹا گرجدانہ ہونا۔
 اغْتَرَضُ : الشَّيْءُ : کسی چیز کو اپنی غرض بنانا۔
 اغْتَرَضُ فَلَانٌ : جو ان مرنا۔
 الغَارَضُ : فَا : ترے کے پانی پر جانے والا۔ لمبی
 ناک۔ کہا جاتا ہے "أَتَيْتُهُ غَارِضًا" یعنی ون کے
 ابتدا میں۔
 الغَرَضُ : مَع : وادی کی ناقص شاخ ج
 غُرْضَانٌ وَغُرْضَانٌ وَغُرْضَانٌ : کباہہ کا
 تنگ جِ اغْرَضُ وَغُرْضَانٌ :
 الغُرْضَةُ : کباہہ کا تنگ جِ غُرْضُ وَغُرْضُ :
 الغَرَضُ : مَع : مطلوب۔ حاجت۔
 قصد۔ کہا جاتا ہے "فَهَمْتُ غَرَضًا" میں نے
 تیرے قصد کو سمجھ لیا۔ نشانہ جس پر گولی ماری
 جائے۔ جِ اغْرَضُ :
 الغَرِيضُ : طرب انگیز گیت۔ بہترین گویا۔ ہر
 سفید تازہ بارش کا پانی۔ پانی جس پر ترے کے آیا
 جائے۔ تازہ گوشت۔
 الإِغْرِيضُ : شُوفُ : ہر سفید تر تازہ۔ جِ
 أَخَارِيضُ :
 الغَرَضُ : اُونٹ کا تنگ جِ مَغَارِضُ :
 المَغْرُوضُ : مَع : بارش کپالی۔
 الغُرْضُوفُ : نرم بڑی جیسے کان 'ناک کی جِ
 غَرَضِيضُ : الغُرْضُوفَانُ : دو گھڑیاں جو کباہہ

کے دائیں بائیں ہاندھی جاتی ہیں۔
 غَرُوعٌ غَرُوعَةٌ : غرغره کرنا۔ غرغرة القُدْرُ :
 ہانڑی کا جوش کے وقت آواز دینا۔ غَرُوعَةٌ : ذبح
 کرنا۔ غرغره بالومح : حلق میں نیزہ مارنا۔
 الرُّجُلُ : آواز گلو گیرنا۔ موت کے وقت خرخر
 کرنا۔ اللَّحْمُ : گوشت میں بھوننے وقت
 آواز ہونا۔
 تَغْرَعُ : بِالمَاءِ او الدَّوَاءِ : پانی یا دوا سے غرغره
 کرنا اور اسی سے ہے "تَغْرَعُ العَيْنُ العَيْنُ
 بالدَّمْعِ" آنکھ آنسوؤں سے ڈبڈبائی۔
 الغَرِيزُ : ایک قسم کی مرغی جس کو چینی مرغی
 کہتے ہیں۔ واحد (غَرِيزَةٌ)
 الغَرِيزُ : بمعنى الغَرِيزِ (دیکھئے الغَرِيزِ)
 الغَرِيزَةُ : پوٹا۔ پیشانی کی سفیدی۔ کہا جاتا ہے
 "فَلَانٌ غَرِيزَةٌ" یعنی فلاں شریف ہے۔
 غَرَفٌ (ض) غَرَفًا : الشَّيْءُ : کٹانا ناصیئتہ :
 پیشانی کے بال کترنا۔
 وَاغْتَرَفَ : المَاءَ يَتَبَدُّهُ پانی کا چلو لینا۔
 تَغْرَفَةٌ : کسی چیز کے ساتھ جتنی چیزیں ہوں سب
 لے لینا۔
 اِنْتَرَفَ : الشَّيْءُ : کٹنا۔ مرنا اور ٹوٹنا۔
 العَظْمُ : بڑی کا ٹوٹنا۔ فَلَانٌ : مرنا۔
 الغَرَفُ : مَع : () والغَرَفُ : پودہ جس سے
 پھلے کو روایت دیا جائے۔
 الغَرَفَةُ : چلو لینے کی ہیئت۔ جوتی۔ جِ غَرَفُ :
 الغَرَفَةُ : چلو۔ جِ غَرَفٌ : کوٹھری کے اندر
 کوٹھری، ہلاخانہ، بالوں کا گچھا۔ جِ غَرَفٌ و
 غَرَفَاتٌ وَغَرَفَاتٌ وَغَرَفَاتٌ :
 الغَرَفَةُ : مَوْنَتٌ غَرَفٌ اسم فاعل۔ مِنْ
 التُّوفِي : تیزوڑنے والی اونٹنی۔ جِ غَوَارِفُ :
 الغَرَفُ : ایک قسم کا بڑا پیانا۔
 الغَرَفُ : بہت چلو لینے والا۔ نَهْرٌ غَرَفٌ : بہت
 پانی کی سر۔ غَمْتٌ غَرَفٌ : بہت بارش۔
 الغَرُوفُ : مِنَ الأَبَارِ : وہ کنوئیں جن سے پانی
 چلو سے لیا جائے۔
 الغَرِيفُ : مِنَ الشَّجَرِ : گھٹا درخت۔ پائس
 نرکل وغیرہ کی بھاڑی۔
 الغَرِيفَةُ : گھٹا درخت۔ جوتی۔ گھٹا۔ پڑنے

کے نچلے حصہ۔ کاچرا۔
 الغَرِيفُ : تیز رفتار گھوڑا اور "مَارِسُ
 مَغْرُوفٌ" بھی کہا جاتا ہے۔ جِ مَغْرَافُ :
 المغْرُوفَةُ : بچہ۔ ڈوٹی۔ جِ مَغْرَافُ :
 غَرَقٌ (س) غَرَقًا : فِي المَاءِ : ڈوبنا۔ صفت
 (غَرَقٌ وَغَارِقٌ وَغَرِيقٌ) جِ غَرَقِيٌّ غَرَقٌ
 فَلَانٌ : دودھ وغیرہ کا کھونٹ لینا۔ مستحبی ہونا۔
 غَرَقٌ (ن) غَرَقًا : مِنَ اللَّبَنِ : دودھ وغیرہ کا
 کھونٹ لینا۔
 اغْرَقُ : فِي الأَمْرِ : مبالغہ کرنا۔
 اغْرَقَهُ وَغَرَقَهُ : ڈوبنا۔ اغْرَقُ وَغَرَقُ فِي
 القَوْسِ : کمان کو بہت زیادہ کھینچنا اغْرَقُ وَغَرَقُ
 اللِّحَامِ بِالْمَغْرِيبَةِ : لگام کو ہاندی سے مزین کرنا۔
 کہا جاتا ہے "اغْرَقَ أَعْمَالَهُ بِالمَغْرِيبِ" یعنی
 اپنے اعمالِ صالحہ کو محاسنی کی وجہ سے ضائع کر
 دیا۔
 غَارَقَهُ : قَرِيبٌ ہونا۔ کہا جاتا ہے "غَارَقَنِي
 لَمِيئَةٌ" یعنی موت مجھ سے قریب ہوئی۔
 اغْتَرَقُ : النَّفْسُ : بہت ہانچنا۔
 تَهَيُّؤُ التَّصَدُّقِ : اُونٹ کے پیسہ کے موٹے
 ہو جانے کی وجہ سے تنگ کا تنگ ہو جانا۔
 الغَرَسُ العَيْنُ : گھوڑوں کی جماعت میں
 داخل ہونا اور آگے بڑھ جانا۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ
 يَغْتَرِقُ العَيْنُ : یعنی فلاں اپنی خوبصورتی کی وجہ
 سے نظر کو اپنی طرف کھینچتا ہے دوسری طرف
 نہیں ڈالنے دیتا۔
 اسْتَقْرَقُ : الشَّيْءُ : کل لے لینا۔ الغَايَةُ :
 مقررہ حد سے آگے بڑھ جانا۔ فِي التَّوَمُّ :
 گمراہی نہیں سونا۔ فِي الضَّحَلِكِ : کھکھلا کر
 ہنسا۔
 اغْرُوقَتْ العَيْنُ : بڑبڑانا۔
 الغَرِيقَةُ : دودھ وغیرہ ایک مرتبہ پینے کی مقدار
 جِ غَرِيقُ :
 الغَارِيقُونَ والأَخَارِيقُونَ : ایک پودہ کی جڑ
 ہے اور یہ زہر کیلئے تریاق ہے اور یہ دونوں گلے
 وخیل ہیں۔
 غَرَقَاتٌ : الدَّجَاجَةُ يَبِيضُهَا : مرغی کا کچھانڈا
 دینا۔ البَيْضَةُ : کچھانڈا کرنا۔

الغزلی: ہنڑے کے سفیدی کی جھلی۔ انڈے کی سفیدی۔

غزل (س) غزلۃ۔ الصبی: بچے کا غیر مختون ہونا۔ صفت (أغزل) مؤنث غزلۃ ع غزل۔ الغزل۔ ڈھیلا ڈھالا آوی۔ بہت ہی زیادہ لمبا تیز۔

الأغزل۔ ارزائی کاسال۔ خوش پیش زندگی۔ الغزولة۔ چڑا جس کو ختنے کے وقت کاٹتے ہیں۔ الغزیل۔ غبار۔ تالاب جس میں کیرے ہی کیرے ہوں جس کو پیمانہ جا سکے۔ خشک یا تڑپتی جس کو سیلاب بہا کر لائے اور سیلاب کے طے جانے کے بعد زمین پر پھٹ پھٹ کر رہ جائے۔ شیشی کے بچے کی پھٹ۔

غرم (س) غزما و غزامة و مغزما اللدین و تحوؤة قرض وغیرہ ادا کرنا۔

فی التجازة: تجارت میں نقصان اٹھانا۔ أغرمه و غزامة اللدین: قرض کی ادائیگی کو لازم کرنا۔ کہا جاتا ہے "غرم السحاب" یعنی بارش ہوئی۔

أغرم۔ بالسنی: بہت خواہش مند ہونا۔ تغرم۔ تاوان برداشت کرنا۔

أغترم۔ تاوان کو اپنے اوپر لازم کرنا۔ الغرامة و الغرم۔ تاوان۔ نال جس کا ادا کرنا ضروری ہو۔ ضرر۔ مشقت۔

الغرام۔ اشتیاق۔ محبت جو دل کو جلائے عذاب کرنے والا ہو۔ بلاکت۔ عذاب۔

الغرمین۔ قرض خواہ۔ قرض دار۔ مخالف۔ ج غزما و غزامة۔

المغرم۔ تاوان۔ ج مغارم۔ الغرمول۔ عسرتاسل۔

غرن (س) غزنا العجین: گندھے ہوئے آنے کا خشک ہونا۔

الغرن۔ کزور۔ الغرین و الغزین۔ تریا خشک مٹی جو سیلاب میں بہ کر آئے اور زمین پر رہ جائے۔ بیوقوفی۔

الغزینق و الغزینق و الغزینق و الغزینق و الغزینق ایک قسم کا آبی پرندہ جو سارس کے مشابہ ہو۔

سفید خوبصورت جوان کیلئے بھی بولا جاتا ہے۔ کہا

جاتا ہے "شابت غزائبق و صبیتة غزائبق و غزائبقة" ج غزائبق و غزائبق و غزائبقہ۔

غزائبق و غزوا۔ الزجل: تجب کرنا۔ الجلد: سریش سے جوڑنا۔ الشخم قلبہ: چربی کا دل پر چھاجانا۔

غروی یغزى غزاة و غزوا و غروی و غزوی وأغروی۔ یکذا: بہت خواہش مند ہونا۔ بہت رغبت رکھنا۔ غزوی الغدیر: تالاب کا پانی ٹھنڈا ہونا۔ فلان: بہت زیادہ غضبناک ہونا۔ غزاة: پہ۔ چمٹنا۔ لازم ہونا۔

غزى تغریة السنی: سریش سے جوڑنا۔ أغزى۔ الزجل یکذا: برا بھلا کرنا۔ أغزى الغداوة بیئہم: دشمنی ڈالنا اور فساد پیدا کرنا۔

غازی غزاة و مغزاة۔ فلان: سخت جھگڑا کرنا۔ بین الشیین: ایک کے بعد دوسرے کا لگا لگا کرنا۔

الغزاة و الغزاة۔ ہر وہ چیز جس کا ظلم کیا جائے۔ جس سے ورق یا کھال کو جوڑیں جیسے سریش یا لہنی۔ الغزاة: خوبصورتی۔

الغزاة و الغزوی۔ خواہش مندی۔ کہا جاتا ہے "لأغزوا و لأغزوی من کذا" یعنی اس سے تجب نہیں۔

الغروی۔ خوبصورت۔ عمدہ عمارت۔ الغریان۔ دو مشہور عمارتیں جو بیروہ کے قریب تھیں۔

المغزاة: سریش پھلانے کا آلہ۔ غزان (ن) غزوا و اغتر بفلان: خاص کرنا۔

الإبل او الصبی: اونٹ یا بچہ پر نظریہ سے حفاظت کیلئے رکھی ہوئی اونٹ لگانا۔ غزاة مغزاة۔ بہت کرنا۔ جھگڑنا۔

أغز الشجر: درخت میں بہت اور سخت کاٹنے ہونا۔ أغزت البقرة: گائے پر وضع صل کا دشوار ہونا۔

تغاز۔ القوم السنی: آپس میں جھگڑا کرنا۔ الغز۔ جزا۔ ترکوں کی ایک قوم۔ واحد (غزوی) غزوا (ک) غزوا و غزاة و غزوا۔ الماء وغیرہ: پانی وغیرہ کثیر ہونا۔ غزوت الناقة: اونٹنی کا بہت دوڑنے والی ہونا۔

تغز الزجل: زیادہ گوشت والا اور موٹا ہونا۔ غازر و استغزوز۔ زیادہ لینے کے لیے تموزا دینا۔

الغز۔ مہ۔ کھجور کے پتوں کی بکری۔ والغزاة۔ کثرت۔

الغزوی۔ ہر چیز کا بہت۔ ج غزوار۔ الغزویة۔ مؤنث غزیر۔ من النوق: بہت دودھ والی اونٹنی۔ من الغیون: بہت آسوں والی آگ۔ من الابر و التناویح: بہت پانی والے کنوئیں اور چشمے ج غزار۔

المغزوار۔ من الابل: بہت دودھ والی اونٹنی۔ مکان (مغزوز) کیش بارش سے سیراب شدہ۔ غزل (ض) غزلا و اغتر۔ الضوف: اون کا تار۔

غزل (س) غزلا بالنساء: عورتوں سے باتیں کرنا۔ عشق بازی کرنا۔ عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔

غزل۔ المزاة: عورت سے بات کرنا اور پھسلانا۔ کہا جاتا ہے "غزل فلان الاذبعین من العشر" یعنی فلاں چالیس سال کے قریب ہو گیاؤ "هو یغازل زعدا من العیش" یعنی وہ نہایت آسوں کی زندگی بسر کرتا ہے۔

أغزلت۔ الطیبة: بہری کا بچنے والی ہونا۔ المزاة: عورت کا نگل گھمانا۔

تغزل۔ فلان: بیکلف عشق بازی کرنا۔ تعازل القوم: بعض کا بعض سے عشق بازی کرنا۔

الغزل۔ مہ۔ کا تاہوا۔

الغزل۔ مہ۔ عورتوں کے ساتھ کھیل کود۔ الغزال۔ ہرن کا بچہ۔ ج غزلة و غزلائی ذم الغزال۔ نام ایک نباتات کا۔

الغزاة۔ غزال کا مؤنث۔ چڑھتے وقت کا سورج غزاة الصخری و غزاة اللہ: چاشت کی ابتداء۔

الغزل۔ عورتوں سے بات کرنے والا۔ عشق بازی کرنے والا۔ مہض جو ہر چیز میں کزور ہو۔

الغزاة۔ کاٹنے والی۔ ج غزل و غوازل۔ الغزلی۔ عورتوں سے باتیں کرنے والا۔

دھونے کی چیز۔
 الْغَسَالَةُ مِنَ الشَّيْءِ: پانی جس سے دھویا جائے، دھونے سے جو پانی کرے۔ کپڑا جو دھویا جائے۔
 الْغَسِيلُ: نسلایا ہوا۔ ج غَسَلْتِی وَغَسَلَاءُ مَوْتٌ غَسْبِلَةٌ ج غَسَالِی۔
 الْغَسَاؤُ: صابون۔ اور ہر وہ چیز جس سے عموماً دھویا جائے۔ ایک پودہ کا نام ہے جس سے دھونے ہیں۔
 الْغَسَالُ: اسم مبالغہ۔ مَوْتٌ غَسَالَةٌ۔
 الْمَغْسَلُ وَالْمَغْسِلُ: غسل خانہ۔ ج مَغَابِیِلُ۔
 الْمَغْسَلُ: غسل خانہ۔ ج مَغْسَلَاتُ۔
 الْمَغْسَلُ: وہ پانی جس سے نہایا جائے۔
 الْمَغْسِلَةُ: وہ برتن جس میں کپڑے دھونے جائیں۔
 غَسَبَ الشَّيْءُ مِنْ فُلَانٍ: کسی سے کسی چیز کو چھین لینا۔
 غَسَمَ (ن) غَسَمًا وَغَسَمَ: اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ صفت (غاسیم)
 الْغَسْمُ: سیاہی۔ تاریکی۔ حاکم سرتی۔
 الْغَسْمُ وَالْأَغْسَامُ: آسمان میں بارش کے ٹکڑے۔
 غَسَنَ (ن) غَسْنًا: الشَّيْءُ: چبانا۔
 غَسَانُ الْقَلْبِ وَغَسَانُهُ: دل کے انتہائی گوشے۔ کہا جاتا ہے "عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ غَسَانِ قَلْبِكَ" میں نے جان لیا کہ یہ تمہارے دل کی گہرائی سے ہے۔
 الْغَسَانُ وَالْفِئْسَانُ: جوانی کی تیزی اور کہا جاتا ہے "هَذَا أَنْتَ مِنْ غَسَانِيهِ" تم اس کے مردوں میں سے نہیں ہو۔
 الْغَسَانِيَّةُ: بہت خوبصورت۔
 الْغَسْنَةُ وَالْفِئْسَانَةُ: بالوں کا گچھا۔ ج غَسْنٌ: غَسْنَاتُ وَغَسْنَاتُ۔
 الْأَغْسَانُ: لوگوں کے اخلاق و عادات۔ پرانے کپڑے۔
 الْفِئْسَانَةُ: نرم و نازک عورت۔

چشمہ غسان پر وارد ہوا تھا اسی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا اور یہ لوگ ایک بہت بڑی حکومت کے مالک ہو گئے تھے جس کا آخری بادشاہ جلد بن الابطم تھا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا۔
 غَسْرٌ (ن) غَسْرًا: عَلَى الْغَرِيمِ: قرض دار پر سختی کرنا۔
 تَغَسَّرَ الْغَزْوُ: کتے ہوئے سوت کا پلٹ جانا۔
 الْبُحْبُحُ: ہوا ہونا۔ الْأَمْرُ: ملتبس ہونا۔ مغلط ہونا۔ صفت (غسب)
 الْغَسْرُ: جس چیز کو ہوا اڑا کا تالاب میں ڈال دے۔
 أَعْسَفَ: تاریکی میں داخل ہونا۔
 الْمَغْسَفُ: تاریکی۔
 غَسَقَ (ض) غَسَقًا وَغَسَقًا وَغَسَقَانًا وَأَغْسَقَ: اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ أَعْسَقَ: الرَّجُلُ: تاریکی میں داخل ہونا۔
 الْمَوْزُونُ: مؤذن کا درمیں مغرب کی اذان کہنا۔
 غَسَقَ (ض) غَسَقًا وَغَسَقًا وَغَسِقًا وَغَسِقًا (س) غَسَقَانًا: الْمَاءُ: پانی گرنے کا۔ الْغَيْمُ: بارش ہونا۔ الْعَيْنُ: آنکھ کا بڑبڑانا۔ اور تاریک ہونا۔
 الْغَسَقُ: اول شب کی تاریکی۔
 الْغَابِيقُ: قا۔ چاند۔ رات جبکہ تاریکی بڑھ جائے۔ گیہوں کی ایک قسم۔
 الْغَسْبَاقُ وَالْفَسَاقُ: ٹھنڈا۔ بدبودار۔
 غَسَلَ (ض) غَسَلًا وَغَسَلًا: الشَّيْءُ: پانی سے میل پھیل ڈور کرنا۔ ۵: تکیف وہ طریقہ سے مارنا۔ بہت متاع کرنا۔
 عَسَلَ: الشَّيْءُ: دھونے میں مبالغہ کرنا۔ بہت جماع کرنا۔
 اِنْعَسَلَ: دُحَلْنَا: الشَّيْءُ: بہنا۔
 اِنْعَسَلَ: نَمَانًا: بِالطَّيْبِ: خوشبو لگانا۔
 الْقَرُوشُ: گھوڑے کو پھیندنا۔
 الْغُسْلُ وَالْفُسْلُ: اسم ہے غَسَلَ سے۔
 الْغُسْلُ وَالْفُسْلُ: ہاتھ نہ دھونے کی چیز جیسے صابن وغیرہ ج غَسَالُ۔
 الْفِئْسَلَةُ وَالْفُسْلُ وَالْفُسْلُ: ہاتھ نہ

الْمَغْرَالُ: بہت کاتنے والا۔
 الْأَغْرَلُ: غَزْلُ: کاسم تفضیل۔
 مِنَ الْخُمِيِّ: بار بار آنے والا بخار۔
 الْمَغْرُولُ وَالْمَغْرُولُ وَالْمَغْرُولُ: ٹکڑہ ج مَغَارِلُ۔
 أَبْوَالُ الْمَغَارِلِ: ٹکڑہ۔
 الْمَغْفِيلُ: مغزل کی تغیر۔ چھوٹا ٹکڑہ۔ باریک رسی۔
 غَزَاةٌ يَغْزُوهُ غَزْوًا: طلب کرنا۔ قصد کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَوَّلْتُ مَا يَغْزِي مِنْ هَذَا الْكَلَامِ" یعنی اس کلام کے مقصود کو میں نے جان لیا۔
 غَزَوًا وَغَزَاوَةً وَغَزَوَانًا: الْقَوْمُ: کسی قوم سے جنگ کیلئے چلنا۔ جہاز کیلئے لگانا۔
 غَزَوِيٌّ وَأَغْزَوِيٌّ: فُلَانًا: جہاز کیلئے بھیجا جانا۔
 سَلَمًا وَبِنَا: بَرَأَيْتُهُ: کرنا۔ ۵: مملت دینا۔
 مَطَالِبٌ كَمَا مَوْخَرٌ كَرِيهًا۔
 اِنْعَزَى الْغَيْزَاءُ: فُلَانًا: قصد کرنا۔ یہ: مخصوص کرنا۔
 الْغَزْوَةُ: غزوا کا اسم۔ ج غَزَوَاتُ۔
 الْغَارِي: قا۔ ج غَزَاةٌ وَأَغْزَوِيٌّ وَغَزَوِيٌّ وَغَزَاةٌ مَوْتٌ حَاذِيَةٌ ج غَوَاةٌ وَغَاوَاتُ۔
 الْغَزَاةُ: اسم ہے غزو کا ج غَزَوَاتُ۔
 الْغَزْوَةُ: جس کا قصد کیا جائے۔ جس کو طلب کیا جائے۔
 الْمَغْزِيُّ: جنگ کرنا۔ جنگ کرنے کی جگہ۔
 مَغْزَى الْكَلَامِ: مقصد کلام۔ ج مَغَاةٌ۔
 الْمَغَاةُ: غازیوں کے مناقب۔ غازیوں کے افعال۔
 اِمْرَاةٌ مَغْرِيَةٌ: عورت جس کا شوہر جہاد میں ہو۔ آتَانُ اَوْ نَاقَةٌ مَغْرِيَةٌ: دیر سے جننے والی گدھی یا اونٹنی۔
 غَسَّ (ن) غَسًا: فِي الْبِلَادِ: داخل ہونا۔
 الْكَلَامُ: کلام میں عیب لگانا۔ ۵
 فِي الْمَاءِ: پانی میں غوطہ دینا۔ الْهَيْوَةُ: بلی کو ڈانٹنا۔ اور غس کرنا۔
 اِنْعَسَ فِي الْمَاءِ: پانی میں ڈوبنا۔
 الْفُسْ: کمزور نالائق۔
 غَسَانُ: ایک یعنی قبیلہ تھا جو حوران کے

غَسَا يَغْشُو غَشْوًا وَغَشِيَ يَغْشِي غَشْيًا
 وَغَشِيَ اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ اَغْسَاهُ
 اللَّيْلُ: تاریکی ڈالنا۔
 الغَسَاةُ: بکھی سمجھیں۔ ج غَشَوَاتِ
 وَغَشِيَ شَخَّ غَاصٍ بِرِقَالِي۔
 غَشِيَةُ (ن) اَغْسَا وَغَشِيَةُ: خلاف ضمیر ظاہر
 کرنا اور خلاف مصلحت کو مزین کرنا۔ دھوکا دینا۔
 اَغْشَهُ: دھوکے میں ڈالنا اَغْشَهُ عَنْ
 حَاجَتِهِ: جلدی کرنا اور حاجت سے باز کرنا۔
 اِغْتَشَّ وَاسْتَفْشَّ: الرَّجُلُ: خیانت کا گمان
 کرنا۔ حَاشَنُ سَمَانًا۔
 الغَشَّ: دھوکا فریب۔ کینہ۔ خیانت۔ دل کی
 سیاسی۔ ترش روئی۔ ہر چیز کی کدورت۔
 الغَشَّ: دھوکا باز۔ ج غَشُونُ۔
 الغَدَّشُ: دھوکا باز۔ ج غَشِيَةُ وَغَشَاشُ۔
 الغَشَشُ: گدلایا۔
 الغَشَاشُ وَالغَشَاشُ: تاریکی کا اول و آخر۔
 قَوْمٌ (غَشَاشَةٌ) دھوکا باز لوگ۔
 المَغْشُوشُ: مغم۔ غیر خالص۔ کہا جاتا ہے
 "لَيْنٌ مَغْشُوشٌ" غیر خالص پانی ملا ہوا دودھ۔
 الغَشَبُ: ظلم۔
 الغَشْرَبُ: شیریشہ۔
 الغَشَارِبُ: مرد لادار۔
 الغَشْفَلُ: لومڑی۔
 غَشِي (ن) اَغْشَا: نرم چیز کو کاٹنا۔
 غَشَمَةُ (ن) (ض) اَغْشَا وَتَغَشَمَةُ: ظلم کرنا۔
 غَشَمَ (ض) غَشَمًا الحَاطِبُ: کلڑی پھینے
 والے کارات کو کلڑی پھینا اور بغیر سوچے پونجے
 جوتا تھ گئے اس کو کاٹنا۔
 الغَاشِمُ وَالمَغْشُومُ وَالمَغْشَامُ: ظالم۔ صاحب۔
 المَغْشَمُ: خود رائے ڈلیر کہ جو چاہئے کرے۔
 ظالم۔
 الغَشْمَشْمُ: بھمن مغشم۔ بہت ظلم کرنے
 والا۔
 الغَشْمَشْمِيَّةُ وَالمَغْمَشْمِيَّةُ: ڈلیری۔
 جرات۔
 غَشَمَزَ غَشْمَزَةً السَّيْلُ: سیلاب کا آنا
 الرَّجُلُ: جن یا باطل میں خود رائی کرنا اور

کوئی پروانہ کرنا۔ الأَمْرُ: بے سوچے کچھ
 کام کرنا۔ فَلَانًا: ظلم کرنا۔
 تَغَشَمَزَ: عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔ فَلَانًا:
 زبردستی لے لینا اور ظلم کرنا۔ تَغَشَمَزَ السَّيْلُ او
 الخَيْشُ: سیلاب یا لشکر کا آنا۔
 الغَشْمَزَةُ: مہ۔ آواز۔ ج غَشَامِرُ۔
 الغَشْمَرِيَّةُ: ظلم۔
 الغَشْمِيرُ: سختی۔ زبردستی۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ
 بِالغَشْمِيرِ" یعنی اس کو سختی سے لیا۔
 غَشَنَ (ن) غَشِيًا: چھڑی مارنا۔ گوار مارنا۔
 غَشَا يَغْشُو غَشْوًا فَلَانًا: کسی کے پاس آنا۔
 غَشِي (س) اَغْسَا وَ: الأَمْرُ فَلَانًا: جمل کرنا۔
 غَشَا: القَرْشُ وغیره: سفید مرد والا ہونا۔
 غَشِي (س) غَشِيًا: فَلَانًا: کسی کے پاس آنا
 فَالسَّوْطِ: کوزے سے مارنا۔
 اِسْتَفْشَى: نُؤْبَهُ وَيَقْوِبُهُ: ڈھانپ لینا تاکہ نہ
 دکھائی دے نہ سنا لے۔
 القَشْوَةُ وَالمَغْشَاوَةُ: دونوں میں غین کی
 تشبیہ ہے۔ پرودہ القَشْوَةُ: خشاک اسم مرۃ۔
 الأَغْشَى: مِنَ الخَيْلِ وَغَيْرِهَا: سارے جسم
 کے خلاف سفید مرد والا گھوڑا۔ مَوْتٌ غَشْوَاءُ۔
 غَشِي يَغْشِي غَشِيًا وَغَشِيًا: الأَمْرُ وَفَلَانًا:
 نازل ہونا۔ ڈھانکنا۔ غَشِي المَوْتَاةُ: جمل کرنا
 المَكَانَ: آنا۔ اللَّيْلُ: رات کا
 تاریک ہونا۔
 غَشِي عَلَيْهِ غَشِيًا وَغَشِيًا وَغَشِيًا: بیوشی
 طاری ہونا۔ صفت مفعول مَغْشَى عَلَيْهِ۔
 اَغْشَى: الأَمْرُ فَلَانًا: نازل کرنا۔ دھوکا دینا
 اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ اللّٰهُ
 عَلَي بَصْرِهِ: نگاہ پر پرودہ ڈال دینا۔ اَغْشَانِي
 فَلَانًا فَلَانًا: کسی کے پاس آنے کیلئے برا بھلا کہنا۔
 غَشِي الشَّيْءُ وَ عَلَي الشَّيْءِ: ڈھانکنا۔
 غَشِيَةُ الأَمْرِ: جس کو کام سے ڈھانک دیا۔
 تَغَشَى: يَقْوِبُهُ: اپنے آپ کو ڈھانکنا۔
 تَغَشَى المَرَاةُ: جماع کرنا۔ تَغَشَاهُ الأَمْرُ: کام
 لے اس کو ڈھانک لیا۔
 اِسْتَفْشَى: نُؤْبَهُ وَيَقْوِبُهُ: اپنے آپ کو ڈھانک
 لینا۔

الغَاشِيَةُ: پرودہ۔ ج اَغْشِيَةُ۔
 الغَشَايِقُ وَالمَغْشَايِقُ: الغَشِيَةُ: پرودہ۔
 الغَشِيَةُ وَالمَغْشَى وَالمَغْشِيَانُ:
 بیوشی۔ غشی۔
 الغَاشِيَةُ: مَوْتٌ غَاشِيَةٌ: پرودہ۔ دل کا پرودہ۔ ج
 غَوَاشٍ: مصیبت۔ قیامت۔ اندرونی بیماری کا
 نام۔ غَاشِيَةُ فَلَانٍ: خدام۔ ملاقاتی دوست
 احباب جو بار بار آئیں۔
 الغَشِيَانُ: آنا۔
 غَصَّ (س) (ن) غَصَصًا: بِالطَّعَامِ وَالمَاءِ:
 کھانے یا پانی سے پھنسا لگنا۔ اچھو لگنا۔ صفت
 (غَاصٌّ وَغَصَانٌ) المَكَانَ يَهْمُ: مجربا
 اور تک ہونا۔
 غَصَّ (ن) غَصَصًا: الشَّيْءُ: قطع کرنا۔
 اَغْصَهُ: اچھو لگوانا۔ کسی کے گلے میں پھنسا
 لگوانا۔ کہا جاتا ہے "اغص علينا الارض" اس
 نے ہمارے اوپر زمین تک کر دی۔
 اِغْتَصَّ: المَكَانَ يَهْمُ: تک ہونا۔
 الغَصَّةُ: جس کا پھنسا لگے۔ تم۔ اندوہ۔ ج
 غَصَصُ۔
 غَصَبَةُ (ض) غَصَبًا عَلَي الشَّيْءِ: مجبور ہونا
 الشَّيْءُ: زبردستی لے لینا۔
 المَوْتَاةُ: زنا بالجبر کرنا۔ الجِدْلُ: کھال سے
 بال اور اون ڈور کرنا۔ صفت (غَاصِبٌ) ج
 غَاصِبُونَ وَغَصَابٌ اور اس کا تہذیب دو مفعول
 کی طرف ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے غَصَبَةُ مَالَةٍ اور
 کبھی مفعول اول میں من کی زیادتی ہوتی ہے۔ کہا
 جاتا ہے "غَصَبْتُ مِنْهُ مَالَهُ"۔
 اِغْتَصَبَ: الشَّيْءُ: ظلم و زبردستی سے لینا۔
 المَوْتَاةُ: زنا بالجبر کرنا۔
 غَاصِبَةٌ: ہر ایک کا دوسرے سے چھیننا۔
 الغَصْبُ: مہ۔ چھینی ہوئی چیز۔
 غَصَنَ (ض) غَصَنًا: الغَصْنُ: شئی کو کاٹنا
 شئی کو کھینچنا۔ الشَّيْءُ: لینا۔ هُ عَنْ
 حَاجَتِهِ: پھیرنا، منع کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "مَا
 غَصَنَكَ عَنِي" کس چیز نے تم کو مجھ سے باز
 رکھا۔
 اَغْصَنَ وَغَصَنَ: العِنْقُودُ: بڑے دانوں والا

غَضَارِيٌّ، کہا جاتا ہے ”ہم فی غَضْرًا مِن الْعَيْشِ“ وہ لوگ آسودہ حالی اور خیر میں ہیں۔
الغاضب - قابض - کمال جس کی دیانت اچھی ہوئی ہو۔ اپنی ضروریات کے لیے تڑکے جانے والا۔ مؤنث (غاضبہ)

الغضبیر - نرم و نازک - سبز رنگ والا - ارض غضبیرہ: خالص مٹی والی زمین۔

المغضبیر - صاحب نعمت و آسودہ حال - ج مَغْبُورُونَ۔

المَغْبُورُونَ - صاحب نعمت و آسودہ حال - ج مَغْبُورُونَ وَمَغَابِيرٍ۔

الغضور - شیریشہ۔

الغضور - بیر سے چپکے والی مٹی۔

الغضروف - بمعنی غُضْرُوف۔

غَضْبُفٌ - الماء پانی کم کر دیتا۔

وَتَقْضُفُفٌ - الماء پانی کم ہونا۔ پیاب ہوتا۔

غَضَفٌ (ض) غَضْفًا - الفؤد: کڑی توڑنا

الکلب أذنه: کتے کا پنے کان کو ڈھیلنا

الوسادة: بکریہ کو موڑنا۔ دوہرا کرنا۔

غَضَفًا (س) غَضْفًا - اللیل: رات کا تاریک ہونا۔

غَضَفَتِ الأذن: خلیقہ: ڈھیلنا ہونا۔

صفت (غضفاء) ج غَضْفٌ - غَضْفٌ العیش: آسودہ ہونا۔ صفت (أغضفٌ وغاضفٌ)

أغضفٌ - اللیل: رات کا تاریک ہونا۔

السحاب: بادل کا چھا جانا اور آمدہ بارش ہونا۔

غَضَفٌ - الشئ: لگانا۔

تَغَضَّفَتِ الجارية: چکانا۔ ناز و انداز سے چلنا

الحیة: کٹھنی مارنا۔ اور کہا جاتا ہے

غَضِبْتُ وَغَضِبْتُ وَغَضِبْتُ مَوْتٌ غَضْبِي وَغَضُوبٌ وَغَضْبَانَةٌ۔ ج غَضْبِي وَغَضَابٌ وَغَضَابِي وَغَضَابِي۔ اور کہا جاتا ہے ”غَضِبْتُ الْفُلَانِ“ یعنی فلاں کے لیے غضبناک ہو گیا۔ ”وَغَضِبْتُ مِنْ لَأْسِي“ یعنی بغیر کسی سبب کے غضبناک ہوا۔

أَغْضَبُو غَضَبَهُ مَغَابِيرَةً - غضب پر برا بھلا کرنا۔ وَغَابِيرَتُهُ: ایک کا دوسرے کو غصہ دلانا۔

غَضِبْتُ فَلَانًا: ناراض کرنا۔ ایک دوسرے کو ناراض کرنا۔ أَعْضَبْتُ الْعَيْنَ: آنکھ کا تنکا وغیرہ نکال دینا۔

تَغَضَّبْتُ وَاسْتَعْضَبْتُ عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔

الغضببة: غضب کا اسم مرہ۔ مچھلی کی کھال۔ سر کی کھال۔

الغضاب والغضاب: آنکھ کا تنکا۔

الغضابي: کدر زندگی بسر کرنے والا۔

الغضب والغضببة والغضببة والغضببة: غضبناک۔

غَضْرَةٌ (ن ض) غَضْرًا - اللہ: خوشحال کرنا۔

آسودہ حال بنانا۔ غَضْرُ الزَّجَلِ: کسی کو روکنا۔ مع کرنا۔ الشئ: کاٹنا۔

غَضْرٌ (س) غَضْرًا وَغَضَارَةً - آسودہ حال ہونا۔

بست مان دار ہونا۔ اچھی زندگی والا ہونا۔

صفت (غضبر) غَضْرٌ (ض) غَضْرًا وَتَغَضَّرَ عَنْهُ: تہاؤز کرنا۔

پھر جانا۔ غَضْرٌ عَلَيْهِ: نائل ہونا۔ الْفُلَانِ: مین مائلہ: نال میں سے کچھ دینا۔

أَغْضَبُوا: جوان مرنا۔

الغضار: خالص چپکے والی مٹی۔ چپکے والی مٹی کا بنا ہوا پیالہ۔ سبز رنگ کی ٹھیکری جو نظرد سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں۔

الغضارہ: مہ۔ نعمت۔ آسودہ زندگی و وسعت و آسودہ حالی۔ سبز رنگ کی ٹھیکری جو نظرد سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خالص مٹی۔ بڑا پیالہ۔ ج غَضَائِرُ۔

الغضراء: مِنَ الارض: پانی کے قریب کی عمدہ زمین۔ وہ زمین جس میں خالص مٹی ہو اور قطعا ایک پرندہ ہے اس کو بھی غَضْرَاءُ کہتے ہیں۔ ج

ہونا۔ أَعْضَبَتِ الشجرة: درخت کا شاخ دار ہونا۔

الغضن - شاخ ج غَضُونٌ وَأَغْضَانٌ وَغَضِنَةٌ۔

الغضنة: شاخ میں نئی ہوئی چھوٹی شئی۔ نُورٌ (أَغْضَنُ) سفید دم کا تیل۔

غَضٌ (ن) غَضًا وَغَضَابًا وَغَضَابًا وَغَضَابَةً - ظرفہ و مین ظرفہ او صؤفہ: و مین صؤفہ: نگاہ یا آواز پست کرنا۔ روکنا۔

الغضن: شاخ کو بغیر دیکے ہوئے توڑنا۔

الشئ: کم کرنا۔ کہا جاتا ہے ”لَا أَغْضُكَ دِزْهَمًا“ میں ایک درہم کو نہیں کروں گا۔

مِنَ الْفُلَانِ: کسی کا مرتبہ گھٹانا۔ کہا جاتا ہے ”غَضُّ بَصْرَةٍ“ یعنی جس چیز کا دیکنا جائز نہیں اس سے منع کیا۔

”غَضُّ ظَرْفِ الْفُلَانِ“ فلاں کی وجہ سے مکوہ بات برداشت کر لی ”وَ غَضُّ لِي سَاعَةً“

یعنی اپنی سواری کو تھوڑی دیر کے لیے روک لو اور ٹھہراؤ۔

غَضٌ (س ض) غَضَابَةً وَغَضُوبَةً التباث وغیرہ: نباتات کا ترو تازہ ہونا۔ صفت (غض) ج غَضَابُ۔

غَضْبٌ - ترو تازہ کو کھانا۔ ترو تازہ و نرم و نازک ہونا۔ ذلت و خواری لاحق ہونا۔

إِنْقَضَ الظرف: نگاہ کا بند ہونا۔

تَغَضَّبَ عَنْهُ: غفلت برتنا۔

الغضاض والغضاض: سر کا اگا حصہ یا چرے یا اوپر کا حصہ۔

الغضبة: ذلت و نقصان ج غَضْبٌ - الغضيبية والغضاضة: ج غَضَابِيضٌ: ذلت و نقصان۔

المغضبة: ج مَغَابِيرٌ: ذلت و نقصان۔

الغض - مہ۔ ترو تازہ۔ نازک بدن۔ کہا جاتا ہے ”مِثَابٌ غَضٌّ“ یعنی ترو تازہ نئی جوانی ج غَضَابُ۔

الغضيبض: ترو تازہ۔ ناقص۔ ذلیل۔ ظرفٌ غَضِيضٌ: پست نگاہ۔ ج أَغْضَاءٌ وَأَغْضَاءَةٌ مؤنث غَضِيضَةٌ ج غَضَابِيضٌ۔

غَضِبٌ (س) غَضْبًا وَ مَغْضَبَةً عَلَيْهِ:

داخل ہوتا۔

الغاضف۔ فا۔ خوش حال۔ خوش عیش۔ کتا جس کا کان آگے کولٹکا ہوا ہو۔

الغضف۔ درخت خرما کے مانند ایک درخت۔ واحد (غضفة)

الغضفة۔ سگ خوار کے مانند ایک پرندہ۔ الأغضف۔ لکے ہوئے کان کا کتا۔ موٹے پھروں کا تیر۔ تاریک رات۔ عینش اغضف: خوش حال زندگی۔

الغضفر۔ مرد سخت بدن۔ سخت عادت والا۔ غطفر غضفرة۔ بھاری ہوتا۔

الغضنفر۔ شیریشہ۔ مرد سخت بدن۔ سخت عادت والا۔

الغضافر۔ شیریشہ۔

اغضالت اغضبالا۔ الشجرة: درخت میں بہت شاخ اور پتے ہوتا۔۔۔

غضنة (ن) ض غضنا عن كذا: منع کرنا۔ روکنا۔ الناقة: اونٹنی کا نام پڑ کر انا اور اسم (الغضان) ہے۔

أغضن۔ السحاب: لگانا بارش ہونا۔ أغضنت عليه الحمى: تیز بخار آنا اور بیش رہنا۔ عليه الليل: رات کا تاریک ہونا۔

غاضن مغاضنة: عینہ: آگھ کا چھپکانا۔ المزاة: آگھ چھپکا کر عورت سے بات چیت کرنا۔

غضن۔ الشئ: موڑنا۔ شمن والا۔

غضبت السماء: لگانا برسنا۔ الناقة: اونٹنی کا نام پڑ کر انا۔

غضن۔ مزنا۔ شمن پڑنا۔

الغضن والغضن: کپڑے یا کھال کی شمن۔ شمن۔ شمت۔ غضن العين: آگھ کی ظاہری کھال ج غضون۔ غضون الأذن: کان کی سلوت۔ کما جاتے "رجل ذو غضون" پشیمان پر شمن والا آدمی "وكان الاقر في غضون ذلك" یعنی اس کے درمیان میں۔

الغضنة الغضنة۔ باریک چھلکا جو چھپک والے کی جلد پر ہوتا ہے۔

الغضين۔ اونٹنی کا نام پڑ کر۔

الأغضن۔ خلتقن تکبر یا عداوت کی وجہ سے آگھ سمیٹنے والا۔

غضا يغضو غصوا۔ الليل: تاریک ہونا۔ البعير: اونٹ کا درخت خفا جڑنا۔ صفت (غاض)

غصوا۔ نعمت اور آسودہ حالت میں ہونا۔ صفت (غاض) مؤنث (غاصبة) ج غواصی۔

غصی يغصی غصی۔ البعير: درخت خفا کے کھانے سے اونٹ کے پیٹ میں درد ہونا۔ صفت (غض) مؤنث غصبة ج غصایا

غصبت الأضف: بہت درد والی ہونا۔ أعضی إغصاء الليل: رات کا تاریک ہونا۔ صفت (غاض) خلاف قیاس۔ أعضی عینہ:

آگھ بند کرنا۔ علی الاقر: خاموش رہنا۔ مبر کرنا۔ کما جاتا ہے "أعضی عنه ظرفة" اس سے اس نے نگاہ پھیر لی۔ و "أعضی علی القدی" اس نے مبر کیا اور معاف کر دیا۔

تغاضی۔ آنکھیں بند کر لینا۔ عنة: غفلت برتنا۔

الغضا۔ جماد کا درخت، جس کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے اور اس کی چوڑائی دیر تک نہیں بھتی۔ واحد (غضاة) جمادی۔ أهل الغضا: نجد کے رہنے والے۔

الغاضية۔ غاضی کا مؤنث۔ تاریک۔ روشن۔ کما جاتا ہے لیلۃ غاضیۃ یعنی تاریک رات "ناؤ غاضیۃ" یعنی روشن آگ۔ آگ ج غواصی۔ الغضیاء: غضا کے آگے کی جگہ۔ أرض غضیاء: بہت درخت غضا والی زمین۔

غظ (ن) ض غظا وأغظ الشئ فی الماء: پانی میں ڈبو نا وغوطہ دینا۔

غظان (ن) غظا۔ سخت پھوڑنا۔

غظ (ض) غطیظا۔ التامیم: سونے والے کا خزانے لینا۔ البعیر: اونٹ ڈالنا۔

تغاطظ۔ الرجلان فی الماء: ایک دوسرے کو پانی میں ڈبو نا۔

الغظ۔ فی الماء: پانی میں ڈبو نا۔ الغطاط۔ سگ خوار پرندے کی ایک قسم۔ والغطاط۔ صبح کی ابتداء۔

غظر (ض) غظروا الرجل: چلنے میں بازو ہلاتا۔

غظروس غظروسة۔ علی فلان: تکبر کرنا۔ الرجل: اپنے ہم عمروں پر دست درازی کرنا۔ بالشئ: خود پسند ہونا۔ ع: غضبناک کرنا۔

تغظروس۔ تاز کرنا۔ تکبر کرنا۔ غضبناک ہونا۔ کل کرنا۔

الغظروس۔ تکبر۔ خود پسند۔ ج غظاروس۔ الغظروس۔ تکبر۔ خود پسند۔ ج غظارونس۔

غظروس۔ الليل بصرة: رات کا نگاہ کوتا تاریک کرنا۔ بصرة: نگاہ تاریک ہونا۔

الرجل: بڑا لی ظاہر کرنا۔ تغظرف۔ ناز و نواز سے چلنا۔ تکبر کرنا۔

الغظرفة۔ تکبر۔ الغظروف والغظرف۔ جی۔ سردار۔ خوش۔ طبع جوان۔ خوبصورت ج غظارفة و غظارنرف۔ الغظرف: باز کا پتہ۔ کمی۔

الغظروف والغظروف۔ خوبصورت خوش طبع جوان۔

غطس (ض) غطسا۔ فی الماء: پانی میں غوطہ کھانا۔ وہی الماء: غوطہ دینا۔ فی الإناء: برتن میں منہ لگا کے پینا۔ غطسة۔ فی الماء: پانی میں غوطہ دینا۔

تغاطسوا۔ فی الماء: پانی میں ایک دوسرے کو غوطہ دینا۔ تغاطس الرجل: غفلت برتنا۔

الغاطس۔ فالليل غاطس: تاریک رات۔ الغطاس۔ عند التصاری: نصرتیوں کی ایک عید۔

الغطاس۔ تعذر یا تک غوطہ لگانے والا۔ ایک پردہ جس کو غواص بھی کہتے ہیں۔

الغطوس۔ لڑائیوں میں پیش قدمی کرنے والا۔ السفطس۔ غوطہ لگانے کی جگہ۔

المفطس۔ بزار بن جس میں غوطہ لگائیں۔ ج مفاطس۔

غطش (ض) غطشا۔ الليل: رات کا تاریک ہونا۔ صفت (غاطش و غطش)

غطش (ض) غطشا و غطشانا۔ مرض یا

کابقیہ - الغفۃ: چھپا۔
 غَفَرْتُ (ض) غَفَرُوا الشَّيْءَ: ڈھانکنا۔
 الشَّيْبُ بِالْحِضَابِ: سفید بالوں کو
 خضاب سے چھپانا۔
 غَفَرُوا وَغَفِرُوا وَغَفِرَتْهُ وَغَفِرَ اَنَا وَغَفِرَتْهُ
 وَغَفِرُوا لَهٗ الذَّنْبُ: چھپانا اور معاف کر دینا
 الامْرُ: درست کرنا۔
 غَفَرْتُ (ض) وَ غَفِرْتُ (س) غَفَرَا وَ غَفِرَ
 الْمَرِيضُ: مریض کا دوبارہ بیا رہنا۔ غَفِرَ وَ غَفِرَ
 الْجُرْحُ: زخم کا تازہ ہونا۔ غَفِرَ الْغُوبُ:
 کپڑے کا روئیں دار ہونا۔
 غَفَرَ الشَّيْءَ: چھپانا؛ ڈھانکنا
 الرَّجُلُ: غفر اللہ لہ: کرنا۔
 اَغْفَرُوْا: چھپانا۔ اَغْفَرُ الرِّمْتُ: گوند نکالنا۔
 تَغْفَرُوْا: گوند چھپانا۔
 تَغْفَرُوا: ہر ایک کا دوسرے کے لیے مغفرت
 کی دعا کرنا۔
 اِغْتَفَرَ: اللہ ذَنْبِيْ: بخش دینا۔
 اِغْفَارُ: التَّوْبَةُ: روئیں دار ہونا۔
 اِسْتَفْعَرُ: اللہ الذَّنْبُ وَمِنَ الذَّنْبِ: بخشش
 طلب کرنا۔
 الْغَفْرُ وَالْغَفْرُ: رواں کپڑے کا۔ الْغَفْرُ: چھوٹی
 چھوٹی گھاس (الغفر والغفر والغفار) گردن
 وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے بال۔
 الْغَفْرُ وَالْغَفْرُ: پہاڑی کبریٰ کا بچہ۔ ج غَفْرَةٌ
 وَأَغْفَارٌ وَغَفُورٌ۔
 الْغَفْرُ: گائے کا بچہ۔
 الْغَفُورُ: گردن وغیرہ پر چھوٹے چھوٹے بال
 والا۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ غَفُورٌ الْقَفَا وَمُرَاةٌ
 غَفُورَةٌ الْوَجْهَ“۔
 الْغَفَارُ: رخسارہ پر نشان۔
 الْغَفُورَةُ: ڈھلنا۔ سرپوش۔ کہا جاتا ہے ”غفر
 الشَّيْءَ بِغَفْرِيْهِ“ اس نے مناسب طریقہ سے
 اصلاح کر دی۔
 الْغَفَاةُ: خود جس کو فوجی ٹوپی کے نیچے پھنسا
 ہے کلزا کہ جس سے کمان کے گوشہ کو لپیٹتے ہیں۔
 چھتھرا جس سے عورتیں اوڑھنی کو میل یا تیل
 وغیرہ سے بچاتی ہیں۔ اور وہ چیز جس سے کسی چیز کو

الغَيْظَلُ: لمی۔
 الْغَيْظَلَةُ: شور و غوغا۔ تاریکی۔ لغت دینا۔
 جھڑی۔ تیل گائے۔ گائے۔ نیر کا تیل۔
 الْغَيْظَلُ: تاریکی۔ شور و غوغا۔
 الْغَيْظَلُ: بھیڑنا۔
 الْغَيْظَلُ: بڑا سمندر۔ وسیع الاخلاق آدمی۔
 جماعت کثیر۔
 غَظْمَطُ: البَحْرُ: سمندر کا بلند موجوں والا ہونا
 الْقَيْدُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ السَّيْلُ: آواز
 دینا۔
 تَغْظَمَطُ: البَحْرُ: سمندر کا جوش مارنا اور
 موجوں کا بلند ہونا۔ الصَّوْتُ: آواز کا گلوگیر
 ہونا۔
 بَحْرٌ غَظَامِيٌّ: بڑی موجوں والا سمندر۔
 الْغَظْمَطُ: بڑا سمندر۔
 غَطَا يَغْطُو غَطْوًا وَغَطْوًا: الشَّيْءَ: چھپانا
 الْمَاءَ وَغَيْرَهُ: بلند ہونا۔ اللَّيْلُ:
 رات کی تاریکی کا سب چیزوں کو چھپالینا۔
 غَطِي تَغْطِيَةٌ وَأَغْطَى: اَغْطَاءُ الشَّيْءِ: چھپانا۔
 اَغْطَى الْكُرْمَ: پانی جاری ہونا اور تیل کا پھیلنا۔
 تَغْطَى وَأَغْطَى: چھپانا۔
 الْبِغَاءُ: پردہ۔ سرپوش۔ ج اَغْطِيَةٌ۔
 الْغَطِيَّةُ: عورت کی کرتی۔
 غَطِي يَغْطِي غَطْيًا وَغَطْيًا: اللَّيْلُ: رات کا
 تاریک ہونا۔ الشَّبَابُ: جوانی کا بھر پور ہونا
 الْمَاءُ: پانی کا بہت ہونا۔ صفت (حَاظِلٌ)
 الشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ: چھپانا۔
 وَأَغْطَى: الشَّيْءُ: درخت میں لمبی لمبی
 شاخوں کا ہونا۔ اَغْطَاهُ: چھپانا۔
 الْغَطِيَّةُ: مؤنث حَاظِلِي: انگوڑی تیل۔
 اِغْتَفْتُ وَتَغْفَتُ: الدَّابَّةُ: جانور کا موسم بہار
 کے چارہ پر پھینکا۔ اِغْتَفْتُ الدَّابَّةَ: چوپایہ کا چارہ
 پانا۔ اِغْتَفْتُ فَلَانًا: چھوڑا دینا۔
 تَغْفَفُ: الْإِنَاءُ: او الضَّرْعُ: برتن یا تھن کے
 بقیرہ کو لینا۔
 الْغَفُفُ: خشک شدہ پتے۔
 الْغَفَّةُ: چارہ جس کو اونٹ منہ سے جلدی لے
 سکے۔ مَرَارَةُ: الْإِنَاءُ: او الضَّرْعُ: برتن یا تھن

بوساپے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چھپنا۔
 غَطِيشٌ (س) غَطِيشًا: کزور نظر والا ہونا۔
 صفت (اَغْطَشُ وَغَطِيشٌ) مؤنث (غَطِيشَاءُ
 وَغَطِيشَةٌ) ج غَطِيشٌ وَغَطِيشَاتٌ۔
 اَغْطَشُ: اللَّيْلُ: رات تاریک ہونا۔
 اللّٰهُ اللَّيْلُ: رات کو تاریک کرنا۔
 تَغْطَشْتُ: عَيْنُهُ: نگاہ کزور ہونا۔
 تَغْطَشُ: عَيْنُهُ: اندھا بنا ہونا غفلت کرتا۔
 اِغْطَشُ: کزور نظر والا ہونا۔
 الْغَطِيشُ: رات کی تاریکی۔
 الْغَطِيشُ: فِي الْعَيْنِ: سیلان اشک کے ساتھ
 نظر کی کزوری۔
 فَلَاةٌ (غَطِيشَاءُ وَغَطِيشٌ وَغَطِيشِيٌّ) چھیل
 میدان جس میں راست کا پتہ نہ ہو۔ کہا جاتا ہے
 ”فَلَاةٌ غَطِيشِيٌّ وَنَحْنُ كَرَمَالِيهَا غَطِيشِيٌّ“
 چھیل میدان تھا اور ہم اس میں اسی میدان کی
 ریت کے مانند پیاسے تھے۔ لیلہ غطيشاء:
 تاریک رات۔
 غَطَاغَطَتُ غَطَاغَطَةً: الْبَحْرُ: ہانڈی کا جوش
 مارنا۔ التَّوْمُ عَلَى فَلَانٍ: نیر کا غالب آنا
 وَتَغْظَمَطُ الْبَحْرُ: سمندر میں موجوں کا
 بلند ہونا۔ تَغْظَمَطُ الشَّيْءُ: بھگرتا۔ متفرق ہونا۔
 الْغَطَاغَطُ: بکری کے مارہ بچے واحد (غَطَاغَطٌ)
 الْغَطَاغَطَةُ: مہ۔ سنگ خوار کی آواز کے مانند
 نقل کرنا۔
 غَطَفٌ (س) غَطَفًا: پکوں کا طویل ہونا اور مڑ
 جانا۔ صفت (اَغْطَفُ) مؤنث (غَطَفَايَا) ج
 غَطَفٌ۔
 الْغَطْفُ: مہ۔ وسعت پیش۔
 الْاَغْطَفُ: مِنَ الْعَيْشِ: آسودہ زندگی۔
 غَطَلٌ (ن) غَطَلًا: السَّمَاءُ: بادل گھر کر آنا۔
 اَغْطَلُ: بادل کی تاریکی بہت ہونا۔
 غَطِلٌ (س) غَطَلًا: اللَّيْلُ: رات کا تاریک
 ہونا۔
 غَطِيْلٌ غَطِيْلَةٌ: بہت مالدار ہونا۔ گائے تیل کی
 تجارت کرنا۔ شور کرنا۔
 اِغْطَالٌ اِغْطِيْلًا: یکے بعد دیگرے آنا اور
 ترتیب سے بیٹھنا۔

چھپائیں۔

الغفارة۔ لمی چوڑی چادر جس کو علمائے سود اور مٹتے تھے۔

الغافر۔ تاج غافرین وغفرۃ۔

الغفور۔ بہت بخشنے والا۔ مؤنث و مذکر دونوں کے لیے مستعمل ہے۔

الغفار۔ بہت بخشنے والا۔ مؤنث غفارة۔

الغفیر۔ مہ۔ رواں۔ کہا جاتا ہے "جائوا واجمنا غفیرا وجم الغفیر والجم الغفیر" یعنی جماعت آگئی جس میں شریف و رذیل بھی قسم کے لوگ ہیں۔

المغفرة۔ پہاڑی بکری بچہ والی ج مغفورات۔
المغفور والمغفورة۔ خود جس کو فوجی ٹوپی کے نیچے پہنتا ہے۔ ج مغافیر۔

المغفور والمغفورة۔ ایک قسم کا گوند جو بعض درختوں سے نکلتا ہے۔ ج مغافیر و مغافیر۔ ارض مغفور وہ زمین جس میں یہ گوند بہت نکلتا ہے۔

الغوفر۔ خربوز کی ایک قسم۔

الغفش۔ آگے کا کچرہ۔

غافصة غفاصا و مغافصة۔ اچانک آجانا۔ اچانک بکھلنا۔

الغافصة۔ مصیبت زمانہ ج غوافص۔

غفقة (ض) غفقا بالسوط۔ کوڑے سے بہتا رہا۔ غفق علیہ کسی پر اچانک آجانا۔

الزجل۔ اچانک واپس آجانا۔

غفقة۔ کچھ تھوڑا سا سونا۔

غفق۔ اس طرح سونا کہ لوگوں کی باتیں سن رہا ہو۔

تفقق۔ الشراب۔ تمام دن شراب پینا یا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پینا۔

اغفق بہ۔ احاطہ کرنا۔

الغفق۔ مہ۔ بلکی بارش۔

المغفق۔ مرغ۔ لوٹنے کی جگہ۔

المغفق۔ واپس ہونے اور مڑنے کی جگہ۔
غفل (ن) غفلوا وغفلا وغفلا عنہ۔ غافل

ہوتا۔ بھول جانا۔ چھوڑنا۔ غفل الشئ۔ چھپانا۔ غفلة۔ غافل ہونا۔ غافل سمجھنا۔ غفل الشئ۔

چھپانا۔

اغفل۔ الشئ۔ چھوڑنا۔ غافل نام رکھنا۔ غافل سمجھنا۔ الكتاب۔ نطق نہ

رکھنا۔ غافل۔ کلام کے وقت کو پوچھنا اور فرصت کا انتظار کرنا۔

غافلہ و تغفلة و اغتفلة و استغفلة غفلت کے وقت کا انتظار کرنا۔ اغتفلة۔ غافل سمجھنا۔

تغافل۔ تکلف غافل بنا۔ تغافل۔ غفلت کے وقت کا انتظار کرنا۔ تغافل عن الامر۔ غافل ہونا۔ بھول جانا۔

الغفل۔ مہ۔ فراخی عیش۔ کہا جاتا ہے "ہوئی غفل من عذیبه" وہ فراخی عیش میں ہے۔

الغفل۔ بے علامت۔ بے حسب آدمی۔

من الشفر۔ جس کا قاتل معلوم نہ ہو۔ من الارض۔ غیر آباد زمین۔ من الرجال۔ ایسا آدمی جس سے نہ خبر کی توقع ہو نہ شرکا نہ نیشہ۔ من الکذب۔ جس کا مصنف معلوم نہ ہو۔ من الشعراء۔ مجمل شاعر ج اغفال۔ نعم (اغفال)

بے علامت چھپائے۔

الغافل۔ تاج غافلون و غفول و غفل۔

الغفلان۔ غافل۔ غفلت و رزی و بے خبری۔

المغفلة۔ ڈاڑھی بچہ۔

المغفل۔ مہ۔ بے خبر آدمی۔ سادہ لوح۔

غفا یغفون غفوا و غفوا و غفی یغفی غفبة و اغفی۔ او گھٹا۔ بلکی نیند سونا۔ کہا جاتا ہے اغفیت اور غفیت کم بولا جاتا ہے۔ غفا الشئ۔ پالی پر تیرنا۔

الغفوة۔ غفا کا اسم مرہ۔ بلکی نیند۔

غفی یغفی غفیا و اغفی۔ الطعام۔ غلہ کو صاف کرنا۔ و اغفی الطعام۔ بہت کوزا کرکٹ والا ہونا۔ اغفی الرجل۔ کھیلان میں بھوسہ برس جانا۔

انغفی۔ الشئ۔ ٹوٹنا۔

الغفی۔ گیہوں کا پھٹکن۔

الغفاء۔ گیہوں کا پھٹکن۔ درخت خرما کیلئے آفت جو عمار کے مانند ہوتا ہے اور میروں کو کھینے نہیں دیتا۔

الغففة۔ بلند ٹیلہ جس پر پالی نہ چڑھے۔

الغفأة۔ آگے کی سفیدی۔

غق (ض) غقا و غقیقا۔ القار۔ قار کا جوش مارنا اور اس کی آواز سنائی دینا (دیکھئے قار)۔

الصقور۔ شکرہ کا آواز کرنا۔

غق الماء و غقیقہ۔ تنگ جگہ میں پانی کے داخل ہونے کی آواز۔

الغقای۔ اسم مہاند۔

غلة (ن) غلا۔ فی الشئ۔ داخل کرنا۔

غل المغارة۔ بیابان میں داخل ہونا۔ الشئ۔ چپکے سے لینا اور اپنے سالان میں ملا دینا۔

الماء بین الأشجار۔ پانی کا درختوں کے درمیان جاری ہونا۔ نگاہ کا راہ راست سے بھٹک جانا۔

غلولا۔ خیانت کرنا۔ فی الشئ۔ داخل ہونا۔ فی البلاد۔ گھمٹے ہوئے چلے جانا۔

غل (ن) غلا و غلل۔ الغلالة۔ غلالہ پینا۔ (دیکھئے غلالہ) غلہ و غلہ۔ ہاتھ میں بھٹکری یا گلے میں طوق ڈالنا۔

غل (ض) غلا و غلبلا۔ صدرة۔ کینہ والا ہونا۔ رمحوں کو فریب والا ہونا۔

غل غلا و غللة۔ سخت پیاسا ہونا۔ صفت (غلیل و مغلول و مغفل)

أغل الرجل۔ خیانت کرنا۔ أغلت الأرض۔ غلہ والی ہونا۔ غلہ پیدا کرنا۔ أغل البصر۔ تیز نظر کرنا۔ أغلہ۔ خیانت کی طرف نسبت کرنا۔

علی عتالہ۔ بال بچوں کیلئے غلہ لانا۔ الخلیب۔ خلیب کا اپنے کلام میں صواب کو نہ پہنچنا۔ الجاز فی الجلید۔

قصائی کا کچھ گوشت اور چربی کے ساتھ کھال کو کھینچنا۔

انغل و تغلل۔ فی الشئ۔ داخل ہونا۔ اغتل الصیحة۔ جائیداد سے غلہ کو لینا۔

الغوب۔ کپڑے کو کپڑوں کے نیچے پینا۔ اغتل و تغلل۔ بالغالیة۔ عالیہ لگانا۔

استغل الارض۔ زمین سے غلہ لینا۔ عتدہ۔ غلام کو غلہ لانے پر مجبور کرنا۔

الغل۔ کینہ و دھوکا فریب۔

الغل۔ پیاس۔ بھٹکری یا طوق ج اغلال و

الغُلج - عمدہ جوانی۔
 الأغلُج - نرم و نازک شاخ۔ ج اغلیج۔
 غلَس فی العمل - آخرت کی تاریکی میں کام کرنا۔ الماء: آخرت کی تاریکی میں پانی پر پتہ۔
 انغلس - آخرت کی تاریکی ج اغلس۔
 غلَصَة (ن) غلَصًا و غلَصَمَة غلَصَمَة۔
 مطلق کاٹنا۔ مطلق پکڑنا۔
 الغلَصَمَة - مہ سر اور گلے کے درمیان کا گوشت۔ جماعت۔ قوم۔ سرداران قوم۔ ج غلاصیم۔ کہا جاتا ہے "هو فی غلَصَمَة مِن قومہ" وہ اپنی قوم میں شریف و معزز ہے۔
 غلِظ (س) غلِظًا۔ فی الأمر: غلطی کرنا۔ صفت (غالیظ)
 اور صفت معنوی مغلوظا بولتے۔
 غلِظَة - غلطی کی نسبت کرنا۔
 غانظَة غلِظًا و مغلِظَة و اغلِظَة۔ غلطی میں ڈالنا۔
 تغالظ - القوم: ایک دوسرے کو غلطی میں ڈالنا۔
 المغلِظَة - وہ مسائل مہمہ جس سے آدمی کو غلطی میں ڈالا جائے۔ وہ چیز جس میں غلطی کی جائے یا کثرت سے جس میں غلطی واقع ہو ج مغلِظ۔
 الأغلِظَة۔ بمن مغلِظَة ج اغلِظَات و اغلِظ۔
 المغلِظَة۔ بمن مغلِظَة۔ کہا جاتا ہے ہذہ منسأة غلِظَة۔ یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں بکثرت غلطی ہوتی ہے۔
 المغلِظ۔ بہت غلطی کرنے والا۔
 غلِظ (ن) ض) و غلِظًا (ک) غلِظًا و غلِظَة و غلِظَة و غلِظَة و غلِظَة۔ مونا ہونا۔ گاڑھا ہونا۔ سخت ہونا۔ صفت (غلِظًا) ج غلِظ و (غالیظ) ج غلِظَة۔ غلِظَات السنبلة: خوشہ میں واہ لکنا۔ الرجل: سخت و تند خو ہونا۔
 غلِظَة۔ گاڑھا کرنا۔ غلِظ الیمین: قسم کو موکہ کرنا۔ غلِظ فی الیمین: قسم میں سختی کرنا۔ کہا جاتا ہے "أخذ منه میناقًا غلِظًا"

لینا۔
 تغالِظ علی البلد: شہر قابض ہونے کے لئے ایک دوسرے پر غلبہ کی کوشش کرنا۔
 اغلِظ السنبط: گھٹنا ہونا۔ القوم: بہت ہونا۔
 استغلب۔ علیہ الصخك: تیز ہونا۔ غالب ہونا۔
 الغلاب۔ بہت غالب ہونے والا۔ ج غلابون۔ الغالب۔ فاج غلابون و غلبَة۔ کہا جاتا ہے "هذا ما یحدث غالبًا و فی الغالب" یہ اکثر احوال میں واقع ہوتا ہے۔
 الاغلب۔ اسم تفضیل۔ اسی سے ہے "علی الاغلب و فی الاغلب" یعنی علی الاکثر و فی الاکثر۔ الاغلب۔ شیر۔
 الغلباء۔ مؤنث الغلب۔ گھنے درختوں کا باغ۔ بڑا اونچے ٹیلے۔ بہت عزیز خاندان۔
 الغلبَة۔ مصر۔ من الرجال: جلد غالب آنے والا۔
 المغلب۔ مہم۔ بار بار مغلوب کیا ہوا۔
 المغلبَة۔ مہم۔ غلبہ۔ غلبہ کی جگہ۔
 غلبت (ن) غلبًا۔ البیع الشراء: فتح کرنا۔
 غلبت (س) غلبًا۔ غلطی کرنا۔ حسابی غلطی کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے۔
 تغلبت و اغتلبت۔ اچانک پکڑ لینا۔ غلبت میں پکڑ لینا۔
 الغلبَة۔ رات کا بہرائی۔
 غلبت (س) غلبًا۔ القوم: سختی سے مقابلہ کرنا۔ و اغتلبت۔ الزند: جہنم سے آگ نہ لگانا۔
 غلبت (ض) غلبًا۔ الشئ بالشئ: ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔
 الغلبت۔ مہم۔ قلعہ کے ساتھ ملنا ہو ڈرا کرکٹ۔
 الغلبت۔ مجنون۔ و المغالیت: سخت جنگ کرنے والا۔
 الغلبت و الغلبت و المغلوث من البیر۔ وہ گیہوں جس میں کوڑا کرکٹ ملنا ہو۔
 غلبج (ض) غلبًا و غلبًا۔ الفرس: برابر ایک ز قارر چلنا۔
 تغلج علی البلد: شہر زبردستی تسلط ہونا۔

غلول کہا جاتا ہے "هذا غل فی غنقک" یعنی یہ تیرے لیے لازم ہے اور تجھے اس پر سزا ملے گی۔
 الغلَة۔ مکان کا کرایہ یا زمین کا حاصل ج غلَات و غلأل۔
 الغلَة۔ سخت پیاس۔ کپڑے کے نیچے پہننے کا کپڑا۔ گدی جس کو عورتیں سرین پر بڑا معلوم ہونے کے لیے باندھتی ہیں۔ ج غلأل۔
 الغلل۔ پیاس۔ درختوں کے درمیان بننے والا پانی۔ چھننا چائے وغیرہ چھانے کا گوشت جو کھال پر رہ جائے۔ ج اغلأل۔
 الغلالَة۔ ہر وہ کپڑا جو کپڑے کے یا زرہ کے نیچے پہنا جائے مثلاً میان یا شلو کا وغیرہ۔
 زرہ کے دو حلقوں کو ملانے والی بخ۔ ج غلأل۔ گدی جس کو عورتیں سرین پر بڑا معلوم ہونے کے لیے باندھتی ہیں۔
 الغالیَة۔ ایک قسم کی مرکب خوشبو۔
 الغلیل۔ سخت پیاسا۔ سخت پیاس۔ کینہ۔ سوزش قیمت یا سوزش غم۔
 الغلیلَة۔ مؤنث غلیل۔ زرہ یا زرہ کے نیچے پہننے کا کپڑا ج غلأل۔
 المغلأل۔ بہت غلے والا۔
 المغفل۔ پیاسا۔ کہا جاتا ہے "أنا مغفل البیہ" یعنی میں اس کا مشتاق ہوں۔
 المغفلَات و المسفلات۔ زمین کا زائدہ (بصورت کرایہ یا قلعہ)
 غلب الرجل و غلب علیہ (ض) غلبًا و غلبًا و غلبَة و مغلِبًا و مغلِبَة و غلبی و غلبی و غلبَة و غلبًا و اغلبت غالب ہونا۔
 کہا جاتا ہے "غلب علیہ الکرم" کرم کا اس کے اوپر غلبہ ہو گیا گویا کہ وہ اس کی عادت ثانیہ ہے۔
 غلب (س) غلبًا۔ مونی گردن والا ہونا۔ صفت (اغلب) مؤنث غلبًا ج غلب۔
 غلبَة۔ غالب بنانا۔
 غلبت غالبًا و مغالبَة۔ ایک دوسرے پر غلبہ کی کوشش کرنا۔
 تغلب علی البلد: شہر زبردستی تسلط ہونا۔

غلف

غلق

غلو

اس سے پختہ عمل کیا۔

أَغْلَفَ الْمَسَافِرُ: مسافر کا سخت زمین پر اترنا
الشَّىءُ غَلِظَ بِأَنَّ لَهُ فِي الْقَوْلِ:

درخت کلائی کرنا۔ سختی سے چمکانا۔

غَالِظٌ مُغَالِظَةٌ: دشمنی کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

إِسْتَغْلَفَ: گاڑھا ہوا۔ موٹا ہوا۔ سخت ہونا
الشَّىءُ: موٹاپا۔

الغُلَظُ: گاڑھا۔ موٹا۔ سخت۔

الغُلُظُ: سخت زمین۔

العِلْظَةُ: ہم۔ سخت۔ مہنگی۔ موٹاپا۔ بد خلقی۔ کہا جاتا ہے
بِهِمْ عِلْظَةٌ یعنی ان کے درمیان
عداوت ہے۔

غَلْفٌ غَلْفَةٌ وَتَغْلَفُ: چلنے میں جلدی کرنا۔

غَلْفٌ وَتَغْلَفُ: یعنی الشَّىءُ: سختی سے داخل

ہوگا۔ کہا جاتا ہے "غَلْفٌ الْبَيْتُ رِسَالَةٌ" اس نے

اس کی طرف ایک شہر سے دوسرے شہر میں پیغام

بجھایا۔ رِسَالَةٌ (مُغْلَفَةٌ) ایک شہر سے دوسرے

شہر میں بھیجا ہوا پیغام۔

الغُلْفُ: زمین میں کھسی ہوئی درخت کی جڑ۔

ج غَلَا غُلْفٌ:

غَلْفٌ (ن) غُلْفًا: الشَّىءُ: ڈھا کٹنا۔ غلاف میں

ڈالنا۔

غَلْفٌ (س) غُلْفًا: غیر منجھون ہونا۔

غَلْفٌ: الشَّىءُ: غلاف میں ڈالنا۔ ڈھا کٹنا۔

چھپانا۔

أَغْلَفَ الشَّىءُ: غلاف بنا۔ غلاف میں ڈالنا۔

تَغْلَفُ وَاعْتَلَفَ: غلاف میں ہونا۔

تَغْلَفُ الرَّجُلُ: داڑھی میں عالیہ۔ یعنی مرکب

خوشبو لگانا۔ اِغْتَلَفَ بِالْعَالِيَةِ: عالیہ خوشبو لگانا۔

الغُلْفُ: ہم ایک درخت ہے دیباغت کے کام

میں آتا ہے۔

الغُلْفَةُ: تختہ کا چمڑا جس کو تختہ کرنے والا کٹتا

ہے ج غُلْفُ الغُلْفَتَانِ: مونچھوں کے دونوں

کنارے۔

الأغْلَفُ: غیر منجھون۔ کہا جاتا ہے قَلْبٌ

أغْلَفٌ یعنی ایسا دل جو نہ محفوظ رکھے نہ کبھی

"عَامٌ غُلْفٌ" اِرْزَانِي كَامَالٍ:

الغلاف۔ وہ چیز جس میں کوئی چیز داخل کی

جائے اور چھپائی جائے جیسے میان، جز دان ج

غُلْفٌ وَغُلْفٌ وَغُلْفٌ:

الغُلْفَاءُ: أغْلَفَ كَامُونَتِ ج غُلْفٌ أَرْضٌ

غُلْفَاءُ: بغیر چری ہوئی زمین۔ سَنَّةٌ غُلْفَاءُ:

ارزانی کا سال۔

غَلِقَ (س) غُلْفًا: تنگ دل ہونا۔ زوج ہونا۔

غضبناک ہونا۔ بد خلق ہونا۔ صفت (غَلِقَ) _____

الزَّهْلُ فِي يَدِ الْمُزْتَقِّهِنَّ: حق مرتن ہونا اور یہ

اس وقت جبکہ راہن رہن چمڑانے سے عاجز ہو

جائے۔

أَغْلَقَ وَغَلِقَ: النبات: دروازہ بند کرنا اور تدار

طریقہ پر یوں لایا جاتا ہے۔

غَلِقَ (ض) غُلْفًا _____ اور یہ اَغْلَقَ میں ایک

ردی نعت ہے۔

أَغْلِقَ: عَلَيْهِ الأَمْرُ: معاملہ کا ہم ہونا۔

أَغْلِقَ الْقَابِلَ فِي يَدِ الْوَالِي: قائل کو دلی کے

قبضہ میں دیا جاتا تاکہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ کہا جاتا

ہے "أَغْلِقَ فَلَانٌ بِجَوْرٍ يَزِيهِ" فلاں اپنے جرم کی

وجہ سے حوالہ کیا گیا اور اسم (العَلَاق) ہے۔

غَالِقَةٌ مُغَالِقَةٌ: شرط لگانا۔

تَغَالَقَ: القَوْمُ: ایک دوسرے سے شرط لگانا۔

إِسْتَغْلَقَ: النبات: دروازہ کا کھلنا و شوار ہونا۔

الكلَامُ عَلَى فَلَانٍ: گفتگو کا بند ہونا۔

الغُلْقُ: قفل۔ کالا۔ بڑا دروازہ _____ عِنْدَ

الْبَيْتَانِ: مہاروں کی اصطلاح میں غُلْقُ اس پتھر

کو کہتے ہیں جو محراب یا قبہ کے بیچ میں لگایا جاتا ہے

ج غُلْقُ جِغَالِقِي:

كَلَامٌ (غُلْقٌ وَغُلْقٌ) مشکل کلام جس کا سمجھنا

دشوار ہو۔

بَابٌ (غُلْقٌ) بند دروازہ۔

المطلق: جوئے کے فائدہ بخش تیروں میں سے

ایک تیرج مغالقی۔

المغْلَقُ وَالمغْلَقُ وَالمغْلُوقُ: قفل۔ کالا

جس سے دروازہ بند کیا جائے۔ ج مغالیقی:

غَلِمَ (س) غُلْمًا وَغُلْمَةٌ وَاعْتَلَمَ: شہوت

پرست ہونا۔ صفت (غَلِمَ وَغُلْمًا وَغُلْمَةٌ)

مؤنث غلمہ و غلیمہ و غلمیہ و معلمہ و اعظم

الشَّبَابُ: جوش مارنا۔ اِغْلَمَتِ الأَمْوَالُ: تیز

ہونا۔

الغلام: سبز خط۔ نوجوان۔ غلام۔ مزدور ج

غُلْمَانٌ وَغُلْمَةٌ وَاعْلَمَةٌ:

الغلامۃ: غلام کا مؤنث باندی۔ لونڈی۔

الغُلْمَةُ وَ الغُلْمِيَّةُ وَ الغُلْمِيَّةُ: نوجوانی۔

المغْلِمِ: تیز شہوت مرد۔

الغَيْلِمُ: مذکر۔ کچھو۔ مینڈک۔ کتوں میں بیانی کا

سوت۔ بہت بالوں والا نوجوان۔ کہا جاتا ہے "عَا

فِي الدَّارِ غَيْلِمٌ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔

غَلِنَ (ض) غُلْنَا الشَّبَابُ: جوش پر ہونا۔

غُلُوَانٌ الشَّبَابُ أَوِ الأَمْرُ: جوانی کی نشا

اور ابتدا۔

غَلَا يَغْلُو غُلُوًا: زیادہ ہونا بلند ہونا _____

النَّبْتُ: نباتات کا گھنجاں اور بڑا ہونا _____

بِالدِّينِ: دین میں جوشیلا و پختہ ہونا۔

غَلَا غَلَاءً: السِّعْرُ: بھاؤ بڑھ جانا۔ صفت

(غَالٌ وَغَالِيٌّ)

غَلَا يَغْلُو غُلُوًا وَغُلُوًا: السَّهْمُ وَبِالسَّهْمِ:

تیر کو اتھالی ڈور تک بھینکانا۔

غَالِي غَلَاءً وَغُلُوًا: السَّهْمُ وَبِالسَّهْمِ:

تیر کو اتھالی ڈور تک بھینکانا _____ فِي الأَمْرِ:

مبالغہ کرنا _____ بِالشَّىءِ قِيَمَتٌ بڑھانا۔ گراں

قِيَمَتٌ پر خریدنا و غَالِي الرَّجُلُ: مقابلہ کرنا۔

أغْلَى الشَّىءِ: گراں قیمت پر خریدنا _____

السِّعْرُ: بھاؤ گراں کرنا _____ الكَرَمُ: اہمور

سے ہے آتار دیتا۔

أغْلَى وَتغَالَى وَاغْلُوَالِي: الشَّجَرُ: درخت

کا گھنجاں ہونا اور بڑا ہونا۔

اغْتَلَى: التَّجَرُّبُ: اونٹ کا تیز چلنا۔

إِسْتغْلَى: الشَّىءُ: گراں پانا۔

الغالی: فاج غلَاةٌ مؤنث غَالِيَةٌ ج غَالِيَاتٌ

و غَوَالٍ: الغالی: موٹا گوشہ۔ کہا جاتا ہے بَعَثَ

بِالغَالِي وَبِالغَالِيَةِ یعنی میں نے گراں پانچ۔

الغلاء: ہم۔ قیمت کی زیادتی۔ ایک قسم کی

چھوٹی مچھلی۔ ج اغلیہ۔

الغُلُوَاءُ وَ الغُلُوَاءُ: حد سے گزرتا (_____

وَ الغُلُوَانِ) آغاز جوانی و نشا جوانی۔ کہا جاتا ہے

"حَقِيقُ مِّنْ غُلُوَانِك" یعنی اپنی سرکشی اور حد

ہیں ج غماتیم کہا جاتا ہے ہو بفر عن فعل حب الغمام وہ اولے جیسے دانتوں سے ہنسا ہے۔ الغمام۔ زکام۔

المغموم۔ زکام زدہ۔
الغمامة۔ مندر کا چھینکا اور کبھی اس کے لئے بھی بولتے ہیں جو گھوڑے کی دونوں آنکھوں کے ادھر ادھر لگا دیتے ہیں تاکہ سوائے سامنے کے نہ دیکھ سکے ج غماتیم۔

الغمماء والغمی۔ غم۔ حزن۔ معیت کہا جاتا ہے "ويفلک تکشف الغماء" ہمیں جیسا آدمی معیت کو ڈور کر سکتا ہے۔

الغمیم۔ گرم کیا ہوا گاڑھا روہ۔
الغموم۔ جمع غم۔ چھوٹے مٹھی ستارے۔
غموم (مغیم) بہت پانی والا بادل۔
أرض مغممة بہت پید اور والی زمین۔

غمغمة (ض) غمغما۔ الطعام: کھانے کا دل پر ثقیل ہونا اور مدہوش کر دینا۔ ههه الماء: پانی میں ڈوبانا۔ الشئ: ڈھانکنا۔

غمیت (س) غمغما۔ کھانا دل پر ثقیل ہونے سے مدہوش سا ہونا۔

غمج (ض) غمجم و غمجم (س) غمجمنا۔ الماء: لگا تار گھونٹ سے پانی پینا۔

الغمجموا الغمجة۔ گھونٹ ج غمجمج۔

غمد (ن) ض) غمدا۔ السیف: تلوار کو میان میں کرنا۔ الشئ: چھپانا۔ الأفر: درست کرنا۔

غمدت (س) غمدا۔ البئر: کنوئیں کا زیادہ پانی والا ہونا۔ کم پانی والا ہونا۔ غمدا اللیل: رات کا تاریک ہونا۔

أغمد۔ السیف: تلوار کو میان میں کرنا۔
الأشیاء: بعض کو بعض میں داخل کرنا۔
عقد هو تقمدا۔ عیوب چھپانا۔

تقمدا لله برحمته: رحمت میں چھپا لیتا۔
رحمت کے سایہ میں رکھنا۔ تقمدا الإناء: برتن کو بھرتا۔

أغمدا اللیل: رات میں داخل ہونا۔
العمد۔ تلوار کی نیام ج غمود و أغمدا۔

سقیفة (غماد و غامد) بھری ہوئی کشتی ج

سے گزرنے کو پست کر۔ و "فعله في غلواء شبابه" اس نے اس کو اپنے آغاز جوانی میں کیا۔

الغلوة۔ ایک تیر تیر تابج غلوات و غلاء۔
الغفلی والغفلة۔ تیر جو اتنا تک چھینکا جائے۔ ج مغال۔

غلی بغلی غلیا و غلیانا۔ جوش مارنا۔
غلی تغلیة و أغلی اغلاء۔ القدر: ہانپی کو جوش دینا۔ الزجل: دور سے اشارہ سے سلام کرنا۔

تغلی۔ عالیہ (مرکب خوشبو) لگانا۔
الغالیة۔ مرکب خوشبو۔ ج غوال۔

غمة (ن) غمما۔ ڈھانپ لینا۔ غمکین کرنا۔ غم۔
الیزوم: تیز گرمی والا ہونا۔ الغصیر۔
الیزوم۔ ستاروں کی روشنی کو ماند کر دینا۔
الشئ الشئ غالب ہونا۔

غم۔ عالیہ الأفر: پوشیدہ ہونا۔ مشتہ ہونا۔
غم (س) غمما۔ لمبے بال والا ہونا۔ صفت

أغم۔ غمکین کرنا۔ أغم الیزوم: سخت گرمی والا ہونا۔

أغمت السماء: بادل والا ہونا اور کہا جاتا ہے "ما أغمک لین و علی وائی" کس چیز نے تم کو میرے لیے غمکین کیا۔

غماة مغمامة۔ ایک دوسرے کو غمکین کیا۔
تغام۔ بخلف غم ظاہر کرنا۔

انغم۔ ڈھک جانا۔ و اغتم۔ غمکین ہونا۔
اغتم التبات: نباتات کا لہبا ہونا اور بہت ہونا۔

اغتم الزجل۔ پوشیدہ ہو جانا۔
الغام۔ غام۔ غام۔ گرم دن۔ غم کلان۔
الغم۔ غم۔ حزن۔ اندوہ۔ کرب۔ ج غموم یوم۔

غم۔ گرم دن۔ غم کلان۔
الغممة۔ غم۔ حزن۔ ملال۔ حیرت۔ ج غمم کہا جاتا ہے "هو في غمة" یعنی وہ حیرت میں ہے۔

لینة (غم و غمة) گرم رات۔ غم کی رات۔
الأغم۔ من السحاب: گھرا ہوا بادل۔ لینة

غشاء: بادل والی رات۔
الغمی۔ سختی، تاریکی۔ گرد آلودگی۔
الغمام۔ بادل۔ ایک کلے کو (غمامة) کتے

غوامد۔

بئو غوامد و غامدة مٹی سے ڈھکا ہوا کنواں۔
مغمدا۔ السیف: تلوار کی میان ج مغماید۔

غمزہ (ن) غمزوا۔ الماء: پانی کا بلند ہو کر ڈھانکنا۔ کہا جاتا ہے "غمز فلانا بفضلہ" اس نے فلاں کو اپنے فضل و احسان سے ڈھانپ لیا۔

غمز (س) غمزوا و غمزوا۔ صدوہ علی: کیند سے بھر جانا۔ غمزت یذوہ: گوشت کی چکناہٹ لگنا۔

غمز (ک) غمازة و غموزة۔ الماء: بہت ہونا۔ الزجل: جاہل ہونا۔

غمز۔ علیہ: بیوش طاری ہو جانا۔
غمز۔ وجہ: مندر پر زعفران ملنا۔
بالشئ: چھینکنا اور رفع کرنا۔

أغمزہ۔ الحز: گرمی کم ہو جانے کی وجہ سے سفر برأت دلانا۔

غامزة مغمامة۔ مقاتلہ کرنا اور موت کی پروا نہ کرنا۔

أغمز و تقمز۔ مندر پر زعفران ملنا۔
أغمز و انغمز۔ پانی میں ڈوبنا۔ انغمز الماء الشئ: ڈوبنا۔

الغمز۔ مہ۔ بہت پانی۔ سمندر کا بڑا حصہ۔ کمال کپڑا۔ گرم و وسیع الاطلاق ج غماز و غموز کہا جاتا ہے "نوب غمز" کشادہ کپڑا" و "لیل غمز"

بہت تاریک رات و "غمز الناس" لوگوں کی جماعت "هو غمز الرداء" وہ بہت بھلائی کرنے والا سخی ہے۔

الغمز و الغمز و الغمز۔ نا تجربہ کار جاہل۔ ج

أغمار۔ الغمز: کیند۔ بیاس۔ الغمز۔ زعفران مندر وغیرہ پر لگانے کی ایک چیز ہے جس کو درس سے بناتے ہیں۔

الغمز۔ مہ۔ نا تجربہ کار۔ جاہل۔ کیند۔ گوشت کی چکناہٹ۔ ج غموز۔ غمز الناس۔ لوگوں کی جماعت۔

الغمز۔ چھوٹا یا لہج غمزار و أغمار۔
الغمز۔ بہت چربی والا۔ چکنا۔

غمزہ۔ الشئ: سختی۔ ج غمزات و غمزار و غمز۔ غمزات الموت: موت کی سختیاں۔

<p>الکَلَامُ: کلام کا دقتی ہونا۔ غَمَضَ (ن ض) غَمَضًا: السِّنْفُ فِي اللَّحْمِ: کھوار کا گوشت میں گھستا۔ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ: سفر کرنا۔ غَمَضَ فِي النَّبِيْعِ: خرید و فروخت میں نرمی برتنا۔ غَمِضَ (س) غَمُوضَةً وَغَمَاضَةً الْمَكَانَ: پست ہونا۔ غَمِضَ وَأَغْمَضَ عَيْنَهُ: آنکھ بند کرنا۔ غَمَضَ فِي النَّبِيْعِ: خرید و فروخت میں نرمی برتنا۔ غَمِضَ الْكَلَامَ: ہنس ہنکو کرنا۔ کہا جاتا ہے "غَمِضَ عَنِ الْإِسَاءَةِ" چشم پوشی کرنا۔ أَغْمَضَتِ الْعَيْنُ فَلَانًا: تجارت کرنا۔ أَغْمَضَ عَنِ الشَّيْءِ: دور گزر کرنا۔ أَغْمَضَ عَلَيَّ كَذَا: برداشت کرنا اور راضی ہونا۔ أَغْمَضَ فِي السَّلْعَةِ: گھٹیا ہونے کی وجہ سے قیمت کم کرنا۔ حَذَّ السِّنْفِ: کھوار کی دھار باریک کرنا۔ فَلَانًا: کسی سے دوڑ میں آگے نکل جانا۔ بعد اس کے کہ پہلے وہ آگے نکل چکا تھا۔ أَنْغَمَضَ: طزوفہ: آنکھ کا بند ہونا۔ اغْتَمَضَ التَّبْرُقَ: بجلی کی چمک بند ہونا۔ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسَاءَةِ: چشم پوشی کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا اغْتَمَضْتُ عَيْنًا" یعنی اس کی آنکھیں نہیں سوئیں۔ الغمض: ہم۔ پست زمین ج غموض و اغماض کہا جاتا ہے "فَلَانٌ ذُو غَمْضٍ" لالائ ذلیل و گنہگار ہے۔</p>	<p>سینہ میں داخل کرنا۔ گھسانا۔ غَمُوضًا: النَجْمُ: ستارے کا ڈوبنا۔ غروب ہونا۔ غَمِضْتُ: سختی سے ڈوبنا۔ غَمِضَ الشُّوبَ: کم پینا۔ الْإِبِلُ: اونٹ کو پلانا پھر واپس جانا۔ غَامِضٌ مُغَامِضَةٌ: غمضات میں کوہ پڑنا۔ فَلَانًا: ایک دوسرے کو پانی میں غوطہ دینا۔ فِي الْأَمْرِ: جلد بازی کرنا۔ اغْتَمَسَ وَاغْتَمَسَ فِي الْمَاءِ: غوطہ لگانا۔ فِي الشَّيْءِ: داخل ہونا۔ گھستا۔ الغموض: مصیبت میں ڈالنے والا معاملہ۔ مِنَ الرَّجَالِ: بہادر۔ کہا جاتا ہے "طَهْفَةٌ غَمُوضٌ" پار ہو جانے والی نیزہ کی مار "الْيَمِينُ الغموض" جان بوجھ کر جھوٹی قسم ج غمض۔ الغميس: تاریکی لیل غميش: تاریک رات۔ والغميسنة: جھاڑی۔ درختوں کا جمند۔ ہر وہ تنہا چیز جس میں چھپا سکتے۔ الغماسة: مرثالی جس کی بہت قسمیں ہوتی ہیں۔ ج غمّاس۔ طعنة غمّاسة: کشادہ زخم۔ غَمِشَ (س) غَمِشًا: چندھا ہونا۔ کمزور نظر ہونا۔ سیلان اٹک کی وجہ سے چندھا ہونا۔ صفت (اغمش) غَمِضَةُ (ض) وَ غَمِضَةُ (س) غَمِضًا: تجارت کرنا۔ غَمِضَ النِّعْمَةَ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ عَلَيْهِ: جھوٹ بولنا۔ عَلَيْهِ كَلَامُهُ: عیب لگانا۔ غَمِضَ (س) غَمِضًا: آنکھ کا کچھڑ والی ہونا۔ غَمِضَتْ عَيْنُهُ: کچھڑ برتا۔ صفت (اغمض) اور آنکھ کو (غمضاء) کہتے ہیں جمع غمض۔ اغْتَمِضَ: حقیر جانا۔ تجارت کرنا۔ جھوٹا سمجھنا۔ الغمض: ہم۔ آنکھ کی کچھڑ۔ رَجُلٌ غَمِضٌ: عیب لگانے والا۔ الغموض: جھوٹا۔ یمن غموض: جھوٹی قسم۔ رَجُلٌ مَغْمُوضٌ عَلَيْهِ: جس کے حسب یا دین میں عیب لگایا جائے۔ غَمُوضُ الْحَنْجَرَةِ: بڑا جھوٹا۔ غَمِضَ (ن) وَ غَمِضَ (ك) غَمُوضًا</p>	<p>الغَمُوضَةُ: زعفران۔ الغَمَازَةُ: جمالت دے خبری۔ والغَمَارُ والغَمَازُ والغَمَازَةُ: لوگوں کی جماعت۔ مختلف لوگوں کی جماعت۔ الغامير: نا۔ آجائز زمین۔ المال الغامير: بہت مال۔ الغمير: بہت پانی۔ الغمير: مد ہوش۔ الغموض: ہضم۔ گناہ غیر مشہور و مقبور۔ الغمارید: سانپ کی بھرتی۔ غَمَزَ (ض) غَمَزًا: تھونا۔ القنّاة: نیزہ کو آزمائش کیلئے داخل سے چبانا۔ ه بِالْعَيْنِ او الْجَفْنِ او الْحَاجِبِ: آنکھ یا پلک یا ابرو سے اشارہ کرنا۔ غَمَزَ عَيْنَهُ او ذَاؤُهُ: عیب یا مرض کا ظاہر ہونا۔ غَمَزَتِ الذَّاهِبَةُ: جانور کا لنگڑا ہونا۔ غَمَزَ بِالرَّجُلِ وَ عَلَيْهِ: طعنہ دینا اور بڑائی کی کوشش کرنا۔ غَامَزَ مُغَامَزَةً: ایک دوسرے کو عیب لگانا۔ اغْمَزَ: فینہ: عیب لگانا۔ حقیر ثابت کرنا۔ گھٹیا مال جمع کرنا۔ تَغَامَزَ الْقَوْمُ: آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرنا۔ اغْتَمَزَ: طعنہ دینا۔ الكلمة کمزور سمجھنا۔ الغمز: گھٹیا مال۔ ڈبے پلے جانور۔ کمزور مرد ج غَمَزَ وَأَغْمَازَ کہا جاتا ہے "هُوَ رَجُلٌ غَمَزَ مِنْ قَوْمٍ غَمَزَ او اغْمَازَ"۔ الغاميز: نا۔ نیزہ کی آزمائش کرنے والا۔ الغمّاز: اسم مبالغہ۔ مؤنث غَمَازَةٌ۔ الغمير: کھلا ہوا عیب۔ الغمير: عیب طعنہ یا طبع کی جگہ۔ ج مغامير۔ الغميرزة: بمعنی مغمز۔ عقل یا عمل کی کمزوری۔ کہا جاتا ہے "مَا فِيهِ غَمِيرَةٌ او مَغْمَزٌ" اس میں کوئی لمبایا عیب نہیں۔ المغموز: ہضم۔ متہم الغموز: اونٹنی جب تک اس کے کوہان پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ موٹائی و ڈبلا پن سے ظاہر نہ ہو۔ غَمَسَ (ض) غَمَسًا: الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ: پانی میں ڈوبنا غوطہ دینا۔ السِّنْفُ فِي صَدْرِهِ: بھالے کو</p>
--	--	--

الغَمَطُ: مکان کی چمت یا چمت کی کلوی، مٹی وغیرہ اس کا شجر غَمَطَانِجُ اَعْمِيَةٌ وَاغْمَاءُ۔
 غَمِي (ض) غَمِيًا وَاغْمِيًا: البَيْتُ: بمعنی غَمَايَلْمُؤُ۔
 غَمِي وَاغْمِي وَاغْمِيًا: اليَوْمُ: تمام دن ابر رہنا۔
 غَمِي وَاغْمِي عَلَى الْمَرِيضِ: غَمِي طَارِي ہوتا۔ صفت (مَغْمِيٌّ وَمَغْمِيٌّ) عَلِيًّا۔
 الغَمِي: گھوڑے کو پھیند لانے والی پوش۔
 کما جاتا ہے "زَجَلٌ غَمِيٌّ" یعنی بے ہوش فرو اور جمع کے لیے کما جاتا ہے "وَجَالٌ غَمِيٌّ وَاغْمَاءُ"
 وَالغَمَاءُ: مکان کی چمت یا چمت وَاغْمَاءُ وَاغْمِيَةٌ۔
 الغَمِيَاءُ: جنگلی چمے کا سوراخ۔
 غَمٌّ (س) غَمًّا: التَّخَلُّلُ: درخت خرا کا پتلا۔
 الوَادِي: وادی کا زیادہ درخت والی ہوتا۔
 وَغَمًاوَعَمَّةٌ: نکلنا۔
 غَمٌّ: الرُّوْضُ: زیادہ درخت والا پتلا۔
 أَعْمٌ: الشَّجَرُ: درخت کا پتلا۔
 الوَادِي: وادی کا زیادہ درخت والی ہوتا۔
 الرُّوْضُ: باغ کا سرسبز کرنا۔ الدَّنَابُ: کھسی کا بھینٹنا۔ الرُّجُلُ: نرم آواز لگانا۔
 الغَمَانُ: کھسی کی بھینٹنا۔
 الغَمَّةُ: نکلنا۔
 الأَعْمُ: نکلنا۔ حَرْفٌ أَعْمٌ: غنہ کا حرف۔ الوَادِي الأَعْمُ: زیادہ گھاس اور درختوں والی وادی۔ مَوْنَتُ غَمَاءُ۔
 القَرِيَّةُ الغَمَاءُ: آباد گادوں۔
 الغَمْبُ: بہت مال قیمت۔
 الغَمْبَةُ: حسین لڑکوں کے جڑے کے درمیان کار آمد ج غمب۔
 الغَمْبُولُ: ایک قسم کا پرندہ۔
 الغَمْتَلُ: گھاس، بے قدر۔ اُمُّ غَمْتَلٍ: بچو۔
 غَمِيَتْ (س) غَمِيًّا: الرُّجُلُ: سانس لے کر بیٹا۔
 غَمِيَتْ نَفْسُهُ: مٹانا۔
 تَغَمَّتْ: الشَّمِي: بوجھل ہونا۔ بھاری ہونا۔ چمٹا۔
 الغَمْفَرُ: بیوقوف۔
 تَغَمَّتْ بِالمَاءِ: بلا خواہش کے پیتا۔

ہوتا۔
 الغَمْفَةُ: ایک بیماری جو پیٹھ میں ہوتی ہے۔
 المَغْمُوقُ: پیچہ کی بیماری والا۔
 غَمَل (ن) غَمَلًا: الشَّمِي: چمپانا۔
 فَلَانًا: پھیند کیلئے ڈھانکنا۔ البَيْسُ: گدر کھجور کی پال دانا۔ العَمْبُ فِي الرُّجُلِ: انگور کو زنبیل میں تہ تہ رکھنا۔ الشَّمِي: درست کرنا۔
 وَتَغَمَّلَ: التَّبَاتُ: ایک دوسرے پر چڑھنا۔
 الشَّمِي: وسیع ہوتا۔
 غَمِلَ (ض) غَمَلًا: پیچیدہ ہو کر خراب و بدبودار ہونا۔ الجُرْحُ: پٹی کی وجہ سے خراب ہونا۔ صفت "غَمِلٌ"
 أَعْمَلُ: الأَهَابُ: کچے چمے کا چھوڑ دینا۔
 انْفَعَلُ: الأَدِيمُ: چمے کا خراب ہونا۔ صفت (غَمِيْلٌ)
 الغَمِيْلُ: مِنَ النَّصِي (ایک قسم کی گھاس) پیچیدہ آگی ہوتی۔ مِنَ الأَرْضِ: بہت زمین ج غَمَلِي۔
 المَغْمُوقُ: مٹا۔ گھاس۔
 الغَمُولُ: درختوں سے ڈھکی ہوئی وادی ج غَمَالِيْلُ۔
 الغَمَلُجُ وَاغْمَلُجُ وَاغْمَلُجُ: الغَمَلُجُ وَاغْمَلُجُ: مونا سبب۔ المَغْمُوقُ: سار میں آگی ہوئی شاخ ج غَمَالِيْلُجُ۔
 الغَمَلْسُ: پیٹاک۔ غمبٹ۔
 الغَمَلُظُ: وراز گردن۔
 غَمَن (ن) غَمَنًا: الشَّمِي: چمپانا۔
 البَيْسُ: گدر کھجور کی پال دانا۔ فَلَانًا: پھیند لانے کے لیے ڈھانکنا۔
 غَمِنَ وَاغْمَنَ فِي الأَرْضِ: غائب کیا جانا۔ غائب ہونا۔
 الغَمَّةُ: ایک قسم کا بیٹا۔
 غَمَايَلْمُؤُ غَمَطًا: البَيْتُ: کلوی اور مٹی سے چمت پانا۔

غَوَامِضُ: الدَّارُ الغَامِضَةُ: مکان جو سڑک سے علیحدہ ہو۔
 الغَمِيضَةُ: عیب۔
 الغَمُوضَةُ: عیب۔ کما جاتا ہے "مَا فِي هَذَا الأَمْرِ غَمُوضَةٌ" یعنی اس معاملہ میں کوئی عیب نہیں۔
 الغَمِيضَاتُ: گناہ جو جان بوجھ کر آدمی کرے۔ مغمضات اللیل: رات کی تاریکیاں۔
 غَمَظَةٌ (ض) وَاغْمَظَةٌ (س) غَمَظًا: حَمَارَتُ کرنا۔ حَمِيرُ جَانَا: غَمَظُ البَغْمَةِ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ ناقدری کرنا۔ الحَقُّ: حق کا انکار کرنا۔ المَاءُ: پانی کا زور سے گھونٹ بھرتا۔
 الذَّبِيحَةُ: ذبح کرنا۔
 أَعْمَظُ: عَلَيهِ الشَّمِي: پیشہ ہونا۔
 غَامَظٌ مُغَامَظَةٌ فِي الشَّرْبِ: گاتا گھونٹ گاتا۔
 تَغَمَّظَ عَلَيْهِ الثَّرَابُ: مٹی سے ڈھانکنا۔ یہاں تک کر مار ڈالنا۔
 اغْتَمَطَ: دوڑیں بارنے کے بعد آگے بڑھ جانا۔
 هُ بِالْكَلامِ: غالب ہونا۔ اغْتَمَطَ الشَّمِي: نکل جانا اور پھر کوئی نشان نہ ملنا۔
 الغَمَطُ: بہت زمین۔
 غَمَمٌ غَمَمَةً: بیل کا خوف کے وقت ڈکارنا۔ الأَبْطَالُ: بہادروں کا مقابلہ کے وقت شور مچانا۔ الكَلَامُ: غیر واضح کلام ہونا۔ الصَّبِي: بچے کا دودھ کیلئے پستان پر رونا۔
 تَغَمَّمُ: الرُّجُلُ: غیر واضح ہونا۔
 الغَرِيْقِيُّ تَحْتِ المَاءِ: ڈوبے ہوئے کا پانی کے نیچے ہونا۔
 الغَمَمَةُ: بہت خوف کے وقت کی آواز۔
 مَقَاتِلُهُ: وقت کی آواز۔ غیر واضح کلام ج غَمَاغِمُ۔
 غَمَقٌ (س) ن) وَاغْمَقٌ (ک) غَمَقًا: المَكَانُ: نمناک ہونا۔ سِلْنُ والا ہونا۔ التَّبَاتُ: نمناک کی وجہ سے خراب ہونا۔ صفت (غَمَقٌ) مَوْنَتُ غَمَقَةً۔
 غَمِقُ: البَعِيْزُ: اوتھ کا نمٹہ کی بیماری میں مبتلا

غَصِجٌ (س) غَنْجًا وَتَغَجٌ. ناز کرنا۔ صفت
(غنج و مغانج) مؤنث غنج و مغانج
الْفُجْجُ وَالْفُجْجُ وَالْفُجْجُ نازِخَرَةٌ۔

الْفُجْجُ نَاجٍ كَابِلٌ جَسُّ كَوِ عَوْرَتِي كَوْنَدَنِي مِيں
استعمال کرتی ہیں۔

الْأَغْجُوجَةُ: ناز و غرہ کرنے کی چیز۔ ج
أَغَانِيحٌ۔

الْفُجْجُ سِيَاهُ كَوْشٍ۔

الْفُجْجُ وَالْفُجْجُ: مِنَ الْعِلْمَانِ: مَوْتًا نَازِہ

لِزَا۔

الْفَايِدُ: نَزْرَةٌ۔

غَيْصٌ (س) غَنْصًا: تَكْبُورٌ ہوتا۔

غَنْظٌ (ض) غَنْظًا: قَرِيبٌ ہلاکت ہوتا۔

الْأَمْرُ فَلَانًا: دِشَارٌ ہوتا (غَنْظَةٌ)

وَغَنْظَةٌ: غَيْظٌ وَغَضَبٌ سے بھرنا۔

غَنْظَةٌ: اِيكٌ دوسرے کو شقت میں جلا کر

رہنا۔

الْغَنْظُ وَالْغَنْظُ وَالْغَنْظُ وَالْغَنْظُ: لَازِمٌ

رَبْعٌ وَغَمٌّ۔

الْمَغْجُوجَةُ: غَمٌّ۔ غَمْرَةٌ۔

غَيْمٌ (س) غَيْمًا: الشَّقِيُّ: مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

غَيْمًا وَغَيْمًا وَغَيْمًا وَغَيْمًا وَغَيْمًا۔

غَيْمًا مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

غَيْمًا مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

غَيْمًا مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

غَيْمًا مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

غَيْمًا مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

غَيْمًا مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

غَيْمًا مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

غَيْمًا مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

غَيْمًا مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

غَيْمًا مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

غَيْمًا مَفْتٌ حَاصِلٌ کرنا۔

الغَمَامُ: مَتٌ بَكْرِيوں والا۔ بَكْرِيوں کا چرواہا۔ مَتٌ
مَالٌ نَعِيمٌ حَاصِلٌ کرنے والا۔

الْمَغْنَمُ: نَعِيمٌ۔ مَغَانِيمٌ: کَمَا جَا تَا ہے مَغْنَمٌ

بَارِدٌ یعنی پاکِ نَعِيمَتِ۔ کَمَا جَا تَا ہے (غَنَامًا) اَنْ

تَفَعَّلَ كَذَا۔ تَمَارِي كُو شَقِّ كِي اَنْتَا ہے کہ تَمٌ

اِيسَا کر۔

الْمَغْنُوَةُ: بے نِازِي۔ کَمَا جَا تَا ہے (لَهُ عِنْدَهُ غَنْوَةٌ)

اِس كُو اِس سے بے نِازِي ہے۔

غَنِيٌّ (س) غِنًى: الرَّجُلُ: كَلِمٌ کرنا۔

غَنِيَّتِ الْمَرْؤَةُ: حَسَنٌ وَجَمَالٌ كِي وَجہ سے اَرَاكُش

سے بے نِازِ ہوتا۔

غَنِيٌّ وَغَنِيٌّ: بِالْمَكَانِ: اَقَامَتٌ کرنا۔ مَفْتٌ

(غَانٌ) کَمَا جَا تَا ہے غَنْوًا بِدِيَارِهِمْ لَمَّا قَمُوا۔ اِنِّی

مَمَالِكٌ مِيں اَقَامَتٌ كِي پُجْرَتَا ہو گئے۔ فَلَا جَ زِنْدِہ

رہنا۔ زِنْدِگِ اِسْرَ کرنا۔

غَنِيٌّ: غِنَاءٌ وَغَنِيَانًا: مَالِدَارٌ ہوتا۔ بِالشَّقِيِّ عِن

غَيْرِهِ: اَلتَّفَاكُرُ۔

غَنِيٌّ تَغْنِيَةٌ: اَوَا زِ کرنا _____ الشَّعْرُ وَ

بِالشَّعْرِ: كَانَا _____ بِالْمَرْؤَةِ: عَشَقٌ بَازِي کرنا۔

الشَّاعِرُ بِفُلَانٍ: كَسِي كِي مَرَحٌ كَرْتَا يَاجُو کرنا۔ غَنَاءٌ

اللَّهُ: مَالٌ دَارِ كَرْتَا۔

أَغْنَى إِعْثَاءَ الرَّجُلِ: مَالِدَارٌ كَرْتَا۔ عِنْدَهُ: كَانِي

ہوتا۔ کَمَا جَا تَا ہے "أَغْنَى عِنْدَهُ غَنَاءٌ فَلَانٌ وَغَنَاءٌ

وَغَنَاءٌ وَغَنَاءٌ وَغَنَاءٌ" یعنی قَائِمٌ مَقَامٌ ہوا۔

إِغْنَى عِنْدَهُ كَذَا: دَوْرٌ كَرْتَا۔ اَوْرٌ کَمَا جَا تَا ہے "مَا

يُغْنِي عِنْدَكَ هَذَا وَمَا أَغْنَى شَيْئًا" یعنی نَافِعٌ نَعِيمٌ

ہے۔

تَغْنَى تَغْنِيَانًا: مَالِدَارٌ ہوتا _____ بِالْمَرْؤَةِ:

عَوْرَتٌ سے عَشَقٌ بَازِي کرنا _____ بِالشَّعْرِ: شَعْرٌ

كَانَا _____ بِالْفُلَانِ: كَسِي كِي مَرَحٌ يَاجُو کرنا۔

تَفَعَّلَتِ الْمَرْؤَةُ: عَوْرَتٌ كَالنَّاحِ كَرْتَا۔

إِسْتَعْنَى: بے نِازِ ہوتا _____ عِنْدَهُ: اَلتَّفَاكُرُ

اللَّهُ: اللہ سے بے نِازِ ہونے کی ذمہ داری۔

الغِنَى وَالغِنِيَّةُ وَالغِنِيَّةُ وَالغِنِيَّةُ: اَلتَّفَاكُرُ۔

تَوَاغَرَى: مَالِدَارِي۔ کَمَا جَا تَا ہے "مَالَةٌ عِنْدَهُ غِنِيٌّ

وَغَنِيَّةٌ وَغَنِيَانٌ" یعنی اِس كے ليے اِس سے چارہ

نہیں۔

الغِنَى وَالغِنَاءُ: اَلتَّفَاكُرُ تَوَاغَرَى۔ کَمَا جَا تَا ہے "لَا

غِنَى عِنْدَهُ" یعنی ضروری ہے۔

الغِنَاءُ: عِنْدَ الصَّوْتِ: كَيْتٌ۔

الْأَغْنِيَّةُ وَالْأَغْنِيَّةُ وَالْأَغْنِيَّةُ وَالْأَغْنِيَّةُ۔

كَيْتٌ۔ سِرِّ رَاكٌ۔ جِ اَغْنَانِيٌّ وَ اَغْنَانٌ۔

الغِنَى: اَلتَّفَاكُرُ کرنے والا۔ تَوَاغَرَى۔ مَالِدَارٌ۔ کَمَا جَا تَا

ہے "هُوَ غَنِيٌّ عِنْدَهُ" یعنی وہ اِس سے بے نِازِ ہے

جِ اَغْنِيَانٌ۔

الغَالِي: فَا۔ غَنِيٌّ: کَمَا جَا تَا ہے "زَجَلٌ غَانٌ عِن

كَذَا" یعنی غَالٌ جِز سے بے نِازِ۔

الغَانِيَّةُ: مَوْنَسٌ۔ غَانِيٌّ: دَوْرٌ عَوْرَتٌ جِ حَسَنٌ وَ

جَمَالٌ كِي وَجہ سے اَرَاكُش سے بے نِازِ ہوا۔ كَلِمٌ

کرنے والی۔ جِ غَانِيَانٌ وَ غَوَانٌ۔

المغْنَى: مَنزَلٌ۔ جِ مَغَانٌ کَمَا جَا تَا ہے "مَخْرُوبٌ

مَبَانِيهِمْ وَخَلَّتْ مَغَانِيهِمْ" یعنی اِن كَا شَرْفٌ

جَا تَا رَا اَوْرَانِ كے مَكَانٌ خَالِي ہو گئے۔ "وَ مَالَةٌ

عِنْدَهُ مَغْنَى" یعنی اِس كیلے اِس سے چارہ نہیں۔

غَهَبٌ (س) غَهَبًا وَ اَغْتَهَبَ: عَنَفٌ۔ غَافِلٌ

ہونا۔ بَھولنا۔

اِغْتَهَبَ: تَارِكِي مِيں چلنا۔

الغَهَبُ: مَهٌ۔ کَمَا جَا تَا ہے "أَصَابَ الصَّيْدَ

غَهَبًا" یعنی شَاكِرٌ رَغْفَلَتٌ مِيں بِلَا تَقْصِدِ كے پَنجٌ كَمَا

"فَعَلَهُ غَهَبًا" اِس كُو بِلَا تَقْصِدِ كَمَا۔

الغَيْبُ: تَارِكِي۔ مَتٌ تَارِكِي رَا تِ۔ مَتٌ

سِيَاهٌ كُھوڑا۔ غَافِلٌ: يَتَوَقَّفُ اَوْرٌ كَزُورٌ جِ

غِيَابٌ۔

الغَيْبَانُ: تَارِكِي۔ مَتٌ۔

الْمَغْيَبَةُ: مَوْنَسٌ۔ غَيْبَتٌ: لِرَاكِي كَا شَوْرٌ۔

غَيْبَتٌ: غَيْبَتٌ۔ تَارِكِي كَا نَظْرٌ كُو كَزُورٌ كَرْتَا۔

الغَيْبُ: نِشَاطٌ۔ دِيوَا كِي۔

الغَوَاقِبُ: دِيوَا كِي۔ كَالَاكُوَا۔

الغَوِقُ: لِسَا اَوْنَسٌ۔

غَاثَةٌ يَغْوُثُهُ غَوْفًا وَ اَغَاثَةٌ اِغَاثَةٌ وَ مَغْوُثَةٌ۔

اَعَاثَتٌ كَرْتَا۔ مَدُوكَرَا۔

غَوَّثُ: الرَّجُلُ: بُو اَعُوْثَاہ كَرنا۔

اِسْتَعَاثَتِ الرَّجُلُ وَ يَهٌ مَدُ وَطَلَبٌ كَرنا۔

الغَوَّثُ وَالغَوَّثُ وَالغَوَّثُ وَالغَوَّثُ: مَدُ۔

الغَوَّثُ وَالغَوَّثُ وَالغَوَّثُ وَالغَوَّثُ: كَمَا نَعَى وَ غَيْرُوكِي

الْمَعَاوِثُ - پانی۔ کہا گیا ہے کہ اس کیلئے مفرد نہیں۔
 حَاجٌ يَنْفُجُ غَوْجًا وَتَفْوَجُ الْفُجُصُ: شنی کا جھکتا مڑنا۔ تَفْوَجُ الزَّجْلُ فِي مَشِيئِهِ: حال میں لپکتا۔
 الْعَوْجُ - کشارہ سینہ کا گھوڑا۔
 غَاوٌ يَفْوُزُ غَوْزًا: بستی کی طرف آنا۔
 الْمَاءُ: گہرائی میں جانا۔ صفت (غائر)
 التَّهَارُ: سخت گرمی والا ہونا۔ الزَّجْلُ: دوپہر میں سونا۔ الشَّيْءُ او الْقَوْمُ: طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "غَوْتُ فِي غَيْرِ مَقَارٍ" بغیر مطلب کے میں نے طلب کیا۔
 غَارَاتُ تَفْوُزُ غَوْزًا وَغَوْزًا عَيْشَةً: آنکھ کا دھنس جانا۔
 غَوْزًا وَغَوْزًا وَغِيَارًا: فِي الْأَمْرِ: معاملہ میں باریک نظر سے دیکھنا۔ فِي الشَّيْءِ: داخل ہونا۔
 غَارَاتُ غِيَارًا وَغَوْزًا الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب ہونا۔
 غَارَ لِهَيْمُ اللَّهِ غِيَارًا وَغَارَهُمْ: رزق وغیرہ سے انعامت کرنا۔
 غَوْزٌ: بستی کی طرف آنا۔ الْمَاءُ: زمین میں اترنا۔ الزَّجْلُ: دوپہر میں چلنا یا نازل ہونا یا سونا۔ الْقَوْمُ: قوم کو شکست دینا۔
 غَوَّرَتِ الشَّمْسُ او التَّحْوُمُ: غروب ہونا۔ ڈوبنا۔ کہا جاتا ہے غَوْزُ التَّهَارِ: جبکہ دن ڈھل جائے۔
 أَعَارَ إِعَارَةً: چلنے میں جلدی کرنا۔ بستی کی طرف آنا۔ سخر کرنا۔ الْحَيْلُ: رستی کو مضبوط بنانا۔
 أَعَارَ إِعَارَةً وَغَارَةً وَمَغَارًا: عَلَيْهِمْ: لوٹ ڈالنا۔ الْفَرَسُ: تیز دوڑنا۔ بِهِمْ وَالْيَهُمُ: بندوبست کے لیے آنا۔
 غَاوَرٌ مَعَاوَرَةٌ: الْعَدُوُّ: دشمن پر لوٹ ڈالنا۔ بَعْضُ كَالْبَعْضِ: پر لوٹ ڈالنا۔
 تَفَوَّرَ: بستی کی طرف آنا۔ ظَاهِرُ الْعَيْنِ: دھنس جانا۔
 تَفَاوَزَ: الْقَوْمُ: بَعْضُ كَالْبَعْضِ: پر لوٹ ڈالنا۔

إِغْتَارَ إِغْتِيَارًا: نفع اٹھانا۔ غلہ حاصل کرنا۔
 إِسْتَفَارَ: عَلَيْهِمْ: لوٹ ڈالنا۔ الزَّجْلُ: پست زمین میں اترنے کا ارادہ کرنا۔ موٹا ہونا۔
 الْجُحُحُ: زخم کا سوجنا۔
 إِسْتَفَوَّرَ إِسْتِفْوَارًا: غلہ مانگنا۔
 الْغَارُ: غارِجُ أَعْرَارٍ وَغِيَرَانِ: ایک قسم کا درخت واحد غَارَةٌ (غبار۔ بڑا لشکر۔ انگوڑے پتے۔ غیرت۔ ٹھوڑی کا گڑھا۔ الْغَارَانِ: ہڈیاں جن میں آنکھیں ہیں اور پیچھے کے تالو۔
 الْغَارَةُ: مہ۔ لوٹ۔ اسم ہے اغارۃ کا ج غَارَاتُ: تیز رفتار غارت ڈالنے والا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے حَيْلٌ شَدِيدٌ الْغَارَةُ: مضبوط شی ہوئی رستی و "شَسَّ الْغَارَةَ عَلَيْهِمْ" گھوڑوں کو متفرق کر دیا اور ہر طرف سے ان پر لوٹ پڑا۔
 الْغَوْرُ: مہ۔ پست زمین۔ نیچے اترنا۔ پانی۔ گڑھا۔ غار۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَبْعِدُ الْغَوْرَ" فلاں نہایت باریک میں ہے۔
 وَ"غَرَفْتُ غَوْزَ الْمَنَالَةِ" مسئلہ کی حقیقت میں نے جان لی۔
 الْغَايِرَةُ: مؤنث غَائِرٍ۔ دوپہر۔ دوپہر کا سونا۔
 الْغَوْزَةُ: آفتاب۔ قبولہ۔
 الْغَوْرُ: خون ہما۔
 الْغَوْرِيُّ: ہرج و مرج کا گڑھا۔
 الْمَغَارُ وَالْمَغَارُ وَالْمَغَارَةُ وَالْمَغَارَةُ: غار۔
 لَوْحٌ مَعَاوِرٌ وَمَغَارَاتُ: الشُّعَارُ: لوٹ کی جگہ۔
 الْمَغْوَارُ وَالْمَغَاوِرُ: مِنَ الرِّجَالِ: بہت لوٹ ڈالنے والا۔ الْفَرَسُ مَعَاوَرٌ: تیز رفتار گھوڑا۔
 غَارَةٌ وَغَوْزَةٌ غَوْزًا: قصد کرنا ارادہ کرنا۔
 الْغَارُ: کس۔ ج۔ غَارَاتُ۔
 غَاصَ يَغْوُصُ غَوْصًا وَغِيَاصًا وَغِيَاصَةً: مَغَاصًا: فِي الْمَاءِ: پانی میں غوطہ لگانا۔ صفت (غائص) ج غَوَّاصٌ وَغَاصَةٌ: غَاصَ عَلَيَّ الشَّيْءُ: اچانک آجانا۔ عَلَيَّ الْمَعَانِي: معانی کی حقیقت تک پہنچنا۔
 غَوْصَةٌ: غوطہ لگوانا۔
 الْغَوَّاصُ: بہت غوطہ لگانے والا۔ وہ دھنس جو موتی وغیرہ کیلئے غوطہ خوری کرتا ہے اور اس فن کا

نام "الغياصة" ہے۔ ایک پرندہ جو غوطہ لگاتا رہتا ہے۔
 الْغَوَّاصَةُ: غواص کا مؤنث۔ آبدوز کشتی۔
 الْمَغَاصُ: مہ۔ غوطہ لگانے کی جگہ۔ ہڈی کے اوپر کا حصہ۔
 غَاصَ يَغْوُصُ غَوْصًا: الْمَحْفُورَةُ: گڑھا کھودنا۔
 فِيهِ: داخل ہونا۔ گھسنا۔ کہا جاتا ہے هَذَا مِثْلُ تَغْوُظٍ فِيهِ الْأَقْدَامُ: یہ ایسی ریت ہے جس میں پاؤں گھس جاتے ہیں۔ فِي الْمَاءِ: پانی میں غوطہ لگانا۔
 غَوَّظَ الْمَيْرُ: کنواں گہرا کھودنا۔
 الطَّعَامُ: بڑے بڑے لقمے لگانا۔
 تَفَوَّظَ بِالسَّخَانِ: کرنا۔ کہا جاتا ہے تَفَوَّظَ بِتَالٍ: پیشاب یا پاخانہ کیا۔
 تَفَاوَّظَا: فِي الْمَاءِ: ایک دوسرے کو غوطہ دینا۔
 الْإِنْفَاطُ: الْغَوْزُ: بکری کا مڑنا۔
 الْغَائِطُ: فا۔ پاخانہ۔ پاخانہ کرنے کی جگہ۔ پست زمین۔
 الْغَوُطُ وَالْغَاطُ وَالْغَوْظَةُ: پست زمین۔ ج غَوْطٌ وَأَعْوَاطٌ وَغِيَاطٌ وَغِيظَانٌ: الْغَاطُ: جماعت۔
 الْغَوْظَةُ: شام میں ایک جگہ کا نام ہے جلدی پانی اور درخت بہت ہیں۔ اس کو غوطہ دھنس بھی کہتے ہیں۔
 يَنْزُو غَوْظًا يَنْظُ: بہت گہرا کنواں۔
 الْغَاغُ: پورینہ۔ واحد (غَاغَةٌ)
 الْغَاغَةُ: بہت سے مختلف لوگ۔
 الْغَوَّغَاءُ: بڑی جو اڑنے کیلئے تیار ہو یا جس کے پر نکل آئے ہوں۔ بہت سے مختلف لوگ۔
 نیچے طبقے کے لوگ۔ خساری لوگ۔
 خَالَهُ يَغْوُغُلُ غَوْغُلًا وَغِغَالَةً: ہلاک کرنا۔ اچانک پکڑ لینا۔ خَالَتَهُ الْخَمْسُ: شراب کا مست کر دینا۔
 غَاوَلٌ مَعَاوَلَةٌ: جلدی چلانا۔
 تَفَاوَلَا: ایک دوسرے پر سبقت کرنا۔
 تَفَوَّلَ: الْأَمْرُ: اتر ہونا۔ تَفَوَّلَتِ الْمَرْأَةُ: رنگ برنگ ہونا۔ تَفَوَّلَتْهُمْ الْغَيْلَانُ: بے راہ کر

وَتَا الْأَرْضَ يَفْلَانِ : ہلاک کر دینا اور
سے راہ کر دینا۔

الغُول - درود سرد ہوئی۔ جنگل کی ڈوڑی۔
مشقت۔ پست زمین۔ بہت مٹی۔

الغُول - مصیبت۔ ہلاکت۔ پھلاوہ۔ ج احوال و
غولان سانپ۔ ہر وہ چیز جس سے عقل زائل ہو
جائے۔ جاوگر اور جن جو مختلف رنگ بدلیں۔
موت۔ ج احوال۔

الغَيْلَةُ - اسم ہے اغتیلال کا۔

الغائِلَةُ - مؤنث غائِل - مصیبت۔ فساد۔

ہلاکت۔ بڑائی ج غَوَانِل۔

الأغُول - مِنَ العَيْشِ : آسودہ زندگی۔

المَغُول - ہلاک کرنے کا آلہ۔ لہا پیکار۔ گتھی۔

المَعَالَةُ - ہلاکت۔

غَوَى يَغْوِي غَيًّا وَغَوَى يَغْوِي غَوَايَةَ : گمراہ

ہونا۔ محروم ہونا۔ ہلاک ہونا۔

وَعَوَى وَاعْوَى - الزَّجَلُ : گمراہ کرنا۔

غَوَى يَغْوِي وَغَوَى يَغْوِي غَوَى الفَصِيل -

اُونٹ کے بچے کو بد ہنسی ہونا اور لاغر ہو کر قریب

ہلاکت ہونا۔ صفت (عَوَى)

تَعَاوَى - یہ تکلیف گمراہ بناؤ۔ تکلف جاہل بنا

القَوْمُ عَلَيَّہِ : قتل کرنے کے لیے ایک

دوسرے کی بد کرنا۔

اِنْفَوَى - الزَّجَلُ : گمراہ کرنا اور جھٹلانا۔

اِسْتَفْوَى - الزَّجَلُ : گمراہ کرنا۔ کہا جاتا ہے ہٹ

(غَوَى وَغَوَى وَغَوَى وَغَوَى وَغَوَى وَغَوَى) یعنی

میں نے تمہارا تہ سر کی۔

العَيْتَةُ وَالعَيْتَةُ : گمراہی۔ کہا جاتا ہے "اِنَّہُ

وَلَدَعَيْتَةٍ" یعنی وہ ولد الزنا ہے۔

الغَاوَى - فَاحِ غَاوُونَ وَغَاوَةٌ - زَانِس غَاوٍ :

چھوٹا سا ریاست پھرنے والے اور اس۔

وَالغَوَى وَالغَوَى وَالغَيَانُ : گمراہ۔ خواہشات کا

غلام۔

الغَاوِيَةُ - مؤنث غَاوَى - منگ جس میں پانی

ہو۔

الأغْوِيَةُ - مصیبت۔ ہلاکت۔ درندوں کے شکار

کے لئے گڑھا۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَ النَّاسُ فِي

أَغْوِيَةٍ" ج اغاوی۔

المَغْوَاةُ - گمراہی کی جگہ۔ ج مَغَاوٍ۔

المَغْوَاةُ - گمراہی کی جگہ ج مَغْوَايَات۔

غَابَ يَغِيْبُ غَيْبًا وَغَيْبًا وَغَيْبًا

وَمَغِيْبًا - غَائِبٌ : غائب ہونا۔ دور ہونا۔ جدا ہونا۔

غَابَتِ الشَّمْسُ غَيْبًا وَغَيْبًا - آفتاب کا

غروب ہونا _____ الشَّمْسُ عَنِ فَلَانٍ : پوشیدہ ہونا

_____ عَنِ يَلَادِهِ : سفر کرنا۔

غَابَ يَغِيْبُ غَيْبًا وَغَيْبًا وَغَيْبًا وَغَيْبًا

وَغَيْبًا الشَّمْسُ فِي الشَّمْسِ : بھسپ جانا۔

غَابَةُ غَيْبَةٍ وَاعْتَابَهُ وَاعْتَابَهُ : غیبت کرنا۔ پیچھے

چھپے ہو کر گئی کرنا۔

غَيْبَهُ - دُور کرنا۔ کہا جاتا ہے غَيْبَهُ غَيْبًا یعنی وہ

اپنی قبر میں دفن کیا گیا۔

أَعَابَتِ المَرْأَةُ : غائب شوہر والی ہونا۔ صفت

(مَغِيْبٌ وَمَغِيْبَةٌ وَمَغِيْبٌ)

غَائِبَةٌ مُعَابَاةٌ - پیچھے چھپے بات کرنا۔ تم کہتے ہو

"أَنَا مَعَكُمْ لَا أَعَابِيكُمْ" میں تمہارے ساتھ

ہوں تمہاری پیچھے چھپے بات نہیں کروں گا۔

تَغَيَّبَ - غَائِبٌ : غائب ہونا۔

تَغَائِبَ القَوْمِ : غائب ہونا۔

الغَيْب - مہ - منگ - ہر وہ چیز جو تم سے غائب ہو۔

بہید۔ پست زمین۔ ج غیب و غُيُوب۔ کہا جاتا ہے

"سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَاءِ الغَيْبِ" یعنی میں نے

آواز اس کی جگہ سے سنی جس کو میں دیکھتا نہیں۔

الغَيْبَةُ وَالغَيْبَانَةُ - پست زمین۔ قبر۔ الغَيْبَانَةُ مِنَ

كُلِّ شَيْءٍ : پروردہ _____ مِنَ الوَادِي او الحُجْبِ :

وادئ یا کنوئیں کی گمراہی۔

العَيْبَةُ - پیچھے چھپے کی بد گوئی۔

الغَائِب - فَا - ج غَيْبٌ وَغَيْبٌ وَغَيْبٌ

غَائِبُونَ - غَائِبٌ : جو چیز تم سے غائب ہو۔

الغَائِبَةُ : ہائس کی بھڑائی پست زمین۔ لوگوں کی

جماعت، لہا نیزہ۔ ج غَابٌ وَغَائِبَاتٌ غَائِبَةٌ

الْبَحْرُ : سمندری کپڑوں کا بچہ۔ رخت۔

الغَيْبَاب - مہ - قبر۔ غَيْبَابُ الشَّجَرِ وَغَيْبَابُهُ :

درخت کی جڑیں۔

الغُيُوبُ وَالغَيْبَابُ - غائب کا اسم مبالغہ۔

الغَيْبُوتَةُ - غروب۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْتُهُ عِنْدَ

غَيْبُوتَةِ الشَّمْسِ" میں نے اس سے آفتاب کے

غروب کے وقت ملاقات کی۔

غَابَتْ يَغِيْبُ غَيْبًا - اللُّهُ البِلَادُ : برساتا۔

غَابَتِ الغَيْثُ الْأَرْضُ : بارش کا زمین پر برساتا۔

غِيْبَتِ الْأَرْضُ : زمین کا سرسب ہونا۔ صفت

(مَغِيْبَةٌ وَمَغِيْبَةٌ) غَابَتِ الثُّرُورُ : روشن ہونا۔

تَغَيَّبَتِ البَعِيْرُ : اُونٹ کا موٹا ہونا۔

الغَيْثُ - بارش۔ گھاس جو بارش کی وجہ سے

اُگے۔ کہا جاتا ہے "وَعَيْنَا الغَيْثُ" اور بسا

اوقات بادل کو بھی غیث کہتے ہیں۔ ج غُيُوتٌ

وَأَعْيَابٌ اور کہا جاتا ہے غیث مغیث عام

بارش۔ مَسْحَابٌ (غَيْثٌ) موسلا دھار بارش کا

بادل اور کہا جاتا ہے "بُنُوذَاتُ غَيْبٍ" بہت پانی

والا کواں۔

غَيْدٌ يَغِيْدُ غَيْدًا - الغَلَامُ : لڑکے کا جھل ہونے

گردن والا ہونا۔ نرم کندھوں والا ہونا۔ صفت

مذکر (غَيْدٌ) صفت مؤنث (غَيْدَةٌ) ج غَيْدٌ۔

تَغَايَدٌ - فِي مَشِيْتِهِ : نزاکت کی وجہ سے چلنے

میں جھکتا۔

الغَيْد - مہ - نزاکت۔

الأغْيَد - نرم و نازک پودہ : مکان اغید بہت

پودہ والی جگہ۔

الغَاذَةُ - نرم و نازک بدن عورت۔ ترو تازہ

شاخ۔ ج غَاذَاتٌ۔

غَيْدَانُ الشَّبَابِ - اوّل جوانی۔

غَيْدٌ غَيْدٌ - مکرر مستعمل ہے اور جی علی الکسر

ہے اور اسم فعل بمعنی امر ہے یعنی جلدی کر دو

جلدی کرو۔

غَيْدُقٌ - المَطْرُ : بارش کا بہت ہونا۔

العَيْدُق - مہ - بہت پانی۔

الغَيْدَاقُ - سبز۔ قیاض۔

وَالغَيْدُقُ وَالغَيْدَقَانُ - نرم و نازک۔ غَازٌ

يَغَازُ غَيْرَهُ وَغَيْرَهُ غَازًا - الزَّجَلُ عَلَيَّ اَمْرًا اَيْبِهِ

مِنْ فَلَانٍ وَهِيَ عَلَيَّهِ مِنْ فَلَانَةٍ : عُثِرَ كَمَا -

صفت (عُثِرَ) وَغَيْرُهُ مَغْيَارٌ) مؤنث (عُثِرُ

وَغَيْرُهُ) ج غَيْزِيٌّ وَغَيْزِيٌّ وَغَيْرُهُ مَغْيَارٌ

اور اسم الغَيْرَةُ۔

غَازَةٌ يَغْيِزُهُ غَيْزًا - نفع دینا۔ کہا جاتا ہے

"غَازَهُ بِغَيْزٍ" یعنی اس کو خیر کا نفع دیا۔ و

غیفاء شجرۃ غیفاء: جھکی ہوئی ڈالیوں والا درخت۔

الغیاف: بہت بڑی لمبی دائرہ والی۔

الغیفاء والغیفاء: شکرانہ حال۔

غَقِقَ: المال: بگاڑنا فاسد کرنا۔ فی

رأبہ: غیر مستقل مزاج ہونا۔ الظایر:

ابن جلد پر پڑ پڑانا۔ بَصْرَه: نگاہ کو پھیرنا۔

تَغَيَّبَتِ الغیض: آنکھ کا تاریک ہونا۔

غاق: مٹی علی التکر کو تے کی آواز کی حکایت

اگر کمرہ کیا جائے تو (غاق) توہین سے کہا جاتا ہے۔

الغاق: کوا۔ والغافلة: ایک آبی پرندہ

ہے جس کو غواص اور غواب الماء بھی کہتے

ہیں۔

غَالَتْ تَغَيَّلَ غَيلاً وَأَغَالَتْ إِغَالَةً الْمَرْأَةُ

وَلَدَهَا: بچے کی بحالت حمل دودھ پلانا۔ صفت

(أغالة ومغبل ومغبل)

غَالَتْ يَغِيْلُ غَيلاً وَغَيَالَةً وَغُوْلًا: چرانا۔

أَغْيَلَتْ إِغْيَالًا: الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا: بچے کی

بحالت حمل دودھ پلانا۔ الشَّجْوَةُ:

درخت کا بڑا اور گھٹا ہونا۔ العقم: بکری کا

سال میں دومرتبہ بچہ جانا۔

تَغَيَّلَ الْقَوْمُ: بکیرا مال ہونا۔

تَغَيَّلَتْ وَاسْتَفْهَلَتْ: الشَّجْوَةُ: درخت کا

جھکی شہیوں والا ہونا۔ صفت (مغیال)

إِغْيَالًا: غَيَالًا: الغلام: موٹا تازہ ہونا۔

الغیال: حالت حمل کا دودھ۔ موٹا تازہ لڑکا۔

مؤنث غَيْلَةٌ: زمین پر بہتا ہو پانی۔ وادی جس میں

چشمے جاری ہوں۔ دُور کی چیز جو نزدیک دکھائی

دے۔

الغیال: جھاڑی۔ صحیح درخت۔ وادی جس

میں پانی ہو۔ شیر کی مانند ج غیال وغیول۔

الغیلة: دھوکا۔ غفلت سے مار ڈالنا۔ حمل میں

دودھ پلانا۔ کہا جاتا ہے "قَتَلَهُ غَيْلَةً" دھوکے سے

مار ڈالا۔

الغایلة: شرب باطنی کینہ۔ حوض میں شگاف۔ ج

غَوَالِلُ: الغَوَالِلُ: مصیبتیں۔

المغالة: بڑی بڑائی۔

الأغیال: پر گوشت۔

المغیور والمغیور۔ سیراب شدہ مقامات۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ مَغِيْرٌ وَمَغِيْرٌ وَأَرْضٌ مَغِيْرَةٌ وَمَغِيْرَةٌ"

غَاضٌ يَغِيْضُ غَيْضًا وَمَغَاضًا وَتَغِيْضٌ

وَأَغَاضٌ: پانی کا کم ہونا۔ نیچے اتر جانا۔

الغَمَنُ: قیمت گھٹنا۔

غَاضٌ وَغَيْضٌ وَأَغَاضُ الْمَاءِ وَالشَّمْنُ: پانی

یا قیمت کم کرنا۔ دَمْعَةٌ: آنسو رکنا۔

الغیض: مہ۔ ناترا پختہ۔ لیلی۔

الغیضہ: ایک مرتبہ کم کرنا۔ جھاڑی۔ پانی کی جگہ

میں بہت درخت۔ ج غیاض و أغیاض

و غیضات۔

المغیض: پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ ج

مغایض: کہا جاتا ہے "مَاءٌ مَغِيْضٌ" یعنی وہ پانی جو

جمع ہونے کی جگہ تک جاری ہو۔

غَاطٌ يَغِيْظُ غَيْظًا: بوجھل ہونا۔

المغایظة: خصومت۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ

مَغَاطِظَةٌ" یعنی ان کے درمیان خصومت ہے۔

الغیظ: باغ۔

غَاطَظَ يَغِيْظُ غَيْظًا وَغَيْظَةً وَأَغَاطَظَهُ

وَغَاطِظَهُ: غمناہ دانا۔ غمناہ پر برا بھلا کہنا۔ کہا جاتا

ہے "غَاطِظَ صَاحِبَهُ لِيَنِ الْعَمَلِ" مقابلہ کرنا۔

تَغَيَّظَ: الحز: سخت گری ہونا ()

وَأَغَاطَظَ: غمناک ہونا۔

الغیظ: مہ۔ غضب یا سخت غضب۔

الغیاط: غم۔ مشقت۔

المغیظ: ناراض۔ رنجیدہ۔

غَافَتْ تَغَيَّفُ غَيْفَانًا وَأَغَيَّفَتْ وَتَغَيَّفَتْ:

الشَّجْوَةُ: دائیں بائیں جھکی ہوئی شاخوں والا

ہونا۔ صفت (غَفَاء) (غَيْف) بھانگنا۔ بزدل ہونا (

و تَغَيَّفَ عَنِ الْأَمْرِ: انکار کرنا۔ اعراض

کرنا۔ ہٹنا۔

أَغَافَ: الغُضُنُ: شہی کو جھکانا۔

الغاف: ایک درخت ہے جس کا پھل بہت میٹھا

ہوتا ہے واحد غَافَةٌ ہے۔

الغیف: پرندوں کا جھنڈ۔

الأغیف: نازک بدن۔ کہا جاتا ہے "عَيْشٌ

أَغْيَفٌ" یعنی آسودہ و خوش حال زندگی۔ مؤنث

"غَارَ هُمُ اللَّهُ بِمِظْرٍ" یعنی اللہ نے ان کو بارش سے سیراب کیا۔

غَارَ فُيْغِرَةُ غَيْْرٌ أَوْ غَيْْرَةٌ: خون بہا دینا۔ غیْر

الشَّئِ: بدل دینا۔ تغیر کر دینا۔

غَايِرُهُ غِيَاْرٌ وَمُغَايِرَةٌ: تبادلہ کرنا۔ مخالفت

کرنا۔ خرید و فروخت میں مقابلہ کرنا۔ غیر ہونا۔

مغارت برتا۔

أَغَاْرَةٌ إِغَاْرَةٌ: غیرت پر برا بھلا کہنا۔

الرَّجُلُ أَمْرَةٌ: مرد کا دوسرا نکاح کر کے

پہلی بیوی کو غیرت میں ڈالنا۔

تَغَيَّرَ: بدل جانا۔ علیٰ أمر آتہ بیوی پر

غیرت آنا۔

تَغَايَرُ: الرَّوْحَانُ: ایک دوسرے پر غیرت

کرنا۔ تَغَايَرَاتُ الْأَشْيَاءِ: چیزوں کا تلف ہونا۔

إِغْتَارٌ إِغْيَارًا: الرَّجُلُ: غلہ مہا کرنا۔

الغیور: مہ۔ اسم ہے غیور سے کہا جاتا ہے "هَنْ

يَكْفُرُ بِاللَّهِ يَلْقَى الْغِيْرَ" یعنی جو شخص کفر باللہ

کرے گا وہ ستیرا حال ہو گا کہ صلاح سے فسار کی

جانب بچ جانے کا۔ بَنَاتٌ غَيْرٌ: بھوت اور باطل

باتیں اور (غیور) کا لفظ سوس کی معنی میں آتا ہے

ج اغیار اور لا کے معنی میں بھی اور بوجہ حالت

کے منصوب ہوتا ہے۔ جیسے "لَمَنْ إِضْطَرَّ غَيْرٌ

بِأَعْيُنٍ وَلَا عَادٍ" یعنی لا باغیا۔ اور ال کے

معنی میں بھی۔ پس اسم لازم الاضافہ ہوتا ہے

لفظوں میں مقطوع عن الاضافة بھی ہوتا ہے

اگر معنی سمجھ میں آئے اور اس سے پہلے لیس یا

لا ہو اور اضافت کے وقت رفع اور نصب جائز

ہے اور حذف مضاف الیہ کے وقت رفع اور

نصر نصب اور فتح بھی جائز ہے۔ کہو گے

"قَبِضْتُ عَشْرَةَ لَيْسَ غَيْرٌ هَا وَ لَيْسَ غَيْرٌ هَا

و لَيْسَ غَيْرٌ وَ لَيْسَ غَيْرٌ وَ لَيْسَ غَيْرٌ وَ لَيْسَ

غَيْرٌ" معنی لیس ال اور کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ غَيْرٌ

مَرَّةً" یعنی ایک سے زائد مرتبہ کیا۔

الغیورہ: خون بہا۔ غلہ کا ذریعہ۔ نخوت اسم ہے

غَارٌ كَاجٍ غَيْرٌ۔

غَيْرٌ: الدَّهْرُ: زمانے کا حوادث۔

الغیورہ: حیثیت کے خلاف۔ ہر روش میں سے

ایک کا دوسرے کے خلاف ہونا۔

کہا جاتا ہے: "تَغَايُؤُاَعَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ" یعنی ایک دوسرے کی اعانت کی یہاں تک کہ قتل کر دیا۔

الغایة۔ مدت۔ جہذا۔ نتیجہ۔ ج غایات۔ وغائب اور نسبت کیلئے (غالی) اور کہا جاتا ہے "غَايَتُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" یعنی تمہاری انتہائی طاقت ہے کہ تم ایسا کرو۔ والغایة: پھڑپھڑانے والا پرندہ۔ چیزوں کے پھسانے کی لے۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ بَعِيدُ الْغَايَةِ" یعنی تمہاری رائے درست ہے۔

الغایة آفتاب کی شعاع کی روشنی منوں کی کہ الی۔ ہر وہ چیز جو انسان پر سایہ انداز ہو۔ جیسے بادل۔ گردوغبار ج غایات۔ الغیة غوی کا مادہ دیکھئے۔

الشعنا۔ جس کیلئے عارت مقرر کی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے "الغایة لَا تَدْخُلُ لِي الْمُعْتَمِدِ" یعنی حد محدود میں داخل نہیں۔

أَغَانِ السَّحَابِ السَّمَاءَ: بادل گر آتا۔ غَيَّنَ غَيْشًا: حرف لکھنا۔

الغین۔ ہم۔ حروف تہجی کا ایک حرف۔ بادل۔ الغیة۔ بلبلائی کے گھمے درخت۔

الغیة۔ پیپ خردار سے جو کبھے بھجائی۔ الأغین۔ مِنَ الشَّجَرِ وَالتَّنَاتِ: سرسبز اور لبا۔ مؤنث غیناء ج غین۔ الغنم۔ تاریکی۔

غَيَا تَغِيْبَةً وَأَغْيَا غَيْبَاءَ: الغایة ای الزاویة: جہذا گاژا غَيَا الْقَوْمِ: جہذا گاژا _____ الظفر عَلَى الشَّيْءِ: پرندہ کا پھڑپھڑانا۔

أَغْيَا السَّحَابِ: بادل کا ایک جگہ پر ٹھہر جانا۔ أَغْيَا الرَّجُلُ: شرافت یا معاملہ میں اتنا کو پہنچنا۔

الْفَرَسُ لِي مَسَابِقِهِ: گھوڑے کا حد مقررہ پہنچنا۔ غَايَاتُهَا غَايَةُ الْقَوْمِ فِي زَيْبِهِمُ السُّيُوفِ: س کے سر پر گواروں کا بلند کرنا۔

تَغَايَتِ الظُّفْرِ عَلَى الشَّيْءِ: پرندہ کا منڈلانا۔

الغیال۔ اسم مہلہ۔ شیر اس وجہ سے کہ غیل یعنی بھاری میں رہتا ہے۔

المُعْتَمِلُ: گھاسیہ دار درخت۔


غَامَتْ تَغِيْمُ غَيْمًا وَغَيْمَتْ وَأَغَامَتْ إِغَامَةً وَأَغِيْمَتْ إِغْيَامًا وَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ: بادل والا ہونا۔ غَامَ التَّوَيْتُ: اونٹ کا پیاسا ہونا۔ صغرت (غَيْمَان) مؤنث (غَيْمَى) أَعْيِمَ الْقَوْمُ: پیاسا ہونا اَغْيَمُوا اِلٰى الْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

غَيْمٌ۔ البھیر: اونٹ کا پیاسا ہونا۔ الغنم۔ ہم۔ بادل ج غِيْمٌ: واحد (غَيْمَةٌ) پیاس۔ اونٹ کی ایک پیاری جس سے پیاس لگتی ہو۔

يَوْمٌ (غِيْمٌ) بدلی کادن۔ حَانَ يَوْمِي غَيْمًا: پیاسا ہونا۔

غَامَتْ لَفْسُهُ: حلا۔ غَامَتْ وَغِيْمَتْ السَّمَاءُ: آسمان پر بادل گر آتا۔

غِيْنٌ وَأَغِيْنٌ۔ عَلَى قَلْبِهِ: خواہشات کا غالب ہونا۔



فَام (ف) فَاَمًا - مِنَ الْمَاءِ: پانی سے
سیراب ہوتا۔
فَامٌ وَفَيْمٌ فَاَمًا وَتَفَامٌ - التَّبَعِيَّةُ: گھاس سے
منہ بھرنا۔
فَاَمٌ وَفَاَمٌ - الْقَتَبُ: پلان کو وسیع کرنا۔ اَفَامٌ
الذَّلْوُ: ڈول بھرنا۔
الْفِيَامُ - لوگوں کی جماعت اور اس لفظ سے
واحد نہیں ج فُوْمٌ کہا جاتا ہے فَطَعْنُوهُ (فُوْمًا) یعنی
ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔
فَاَمٌ يَفْأِي فَاَوًا وَفَاَيًا - رِاضٌ فُلَانٌ: کسی کے
سر کو گوارے سے چاڑھنا۔
اَفَايٌ - تنگ وادی میں پڑنا۔
تَفَايٌ - الْقُدْحُ: نیالہ کا پھٹنا۔
اِنْفَايٌ - کھانا۔ الشَّيْءُ: پھٹنا۔
الْفَاوُ - مہ - دو پہاڑوں کے درمیان شکاف۔
وادی میں تنگ جگہ - چکنی جگہ - ریت کا تودہ۔
رات - آفتاب غروب ہونے کی جگہ - پہاڑوں
کے درمیان عمدہ زمین۔
الفَيْتَةُ - جماعت - گروہ ج فَيَاتُ وَفَيَاتُ
فَتٌ (ن) فَتًا وَفَتَّتْ - الشَّيْءُ: اُكْلِيوں سے
چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَتَّتْ
فِي سَاعِدِيه" یعنی اس نے اس کو تڑور کر دیا۔
"فَتَّتْ فِي عَضُدِيه" یعنی اس کی قوت توڑی اور
اس کے اعوان و انصار کو متحرق کر دیا۔
اِنْفَتَّتْ وَفَتَّتَتْ - ٹوٹنا۔
الْفَتُّ - مہ - پتھر میں پھین - کہا جاتا ہے "هَمُّ
اَهْلِ نَيْبِ فَتْبٍ وَفَتْبٍ وَفَتْبٍ" یعنی وہ لوگ منتشر
ہیں۔
الفَتَّةُ الْفَتَّةُ - خشک بیگنیاں جو توڑی جائیں اور
بہتران کے نیچے رکھ کر آگ روشن کی جائے۔ کہا

المَفَادُ والمَفَادُ والمَفَادَةُ - آگ کرینے کا
لوہا کڑی - سِخٌ - مَفَايِدُو مَفَايِدُ -
المَفْوُودُ - دل کی بیماری والا - بزدل - بھولگی کی
پکی ہوئی روٹی - بھنا ہوا۔
فَاَزَفٌ (ف) فَاَزَا - التَّرَاثُ: مٹی کھودنا۔
الشَّيْءُ: دفن کرنا - چھپانا۔
فَيْزٌ (س) فَاَزَا - الْمَكَانُ: بہت چوہے والا ہونا۔
الفَارِسُ - مہ - چوہا - ج فَيْرَانٌ وَفَيْزَةٌ واحد (الْفَاَزَةُ)
تذکرہ مؤنث دونوں کیلئے۔
الْفَاَزَةُ: ٹھک کا تازہ۔
مَكَانٌ (فَيْزٌ) وَارِضٌ وَفَيْزَةٌ وَفَاَزَةٌ: بہت
چوہوں والا مکان - بہت چوہوں والی زمین۔
فَأَسٌ (ف) فَأَسًا - الْحَشِيئَةُ: کڑی کو کھلاڑی
سے چاڑھنا۔ الرَّجُلُ: کھلاڑی سے مارنا۔ سر
کے پھیلے حصہ پر لگانا۔
الْفَأْسُ - مہ - کھلاڑی۔ کبھی بغیر ہتھ کے بولا جاتا
ہے اور کہا جاتا ہے (فَأَسٌ) اور یہ مؤنث سالی ہے
ج أَفْوَسٌ وَفَوْسٌ فَأَسٌ الرَّاسُ: سر کے پھیلے
حصہ کی ابھری ہوئی بڑی۔ فَأَسٌ النَّمِصُ: منہ کا وہ
کنارا جس میں دانت ہیں۔ فَأَسٌ اللُّجَامِ: لگام کا
وہ لوہا جو گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے۔
فَاَفَاةٌ فَاَفَاةٌ - الرَّجُلُ: حرف فاکر بولنا۔ صفت
(فَاَفَاةٌ وَفَاَفَاةٌ)
فَأَقَى (ف) فَاَفَاةً: بھلی آنا۔
فَاَلَةٌ تَفْيِيْلًا - بِالشَّيْءِ: نال لینا۔
تَفَاَلٌ وَتَفَاعَلٌ وَافْتَالٌ: یہ: اچھا لگونا لینا۔
الْقَالُ: نیک لگونا۔ جیسے مریض کسی کو بتا سالیام
کہتے ہوئے سے تو اس سے یہ کہے کہ صحت ہو
جائے گی۔ کہا جاتا ہے "لَا قَالٌ عَلَيْنَا" یعنی تیرے
اوپر کوئی ضرر نہیں ج فَوْقٌ وَافْوَالٌ۔

الفَاءُ - یہ حرف کئی محزون میں مستعمل ہے۔
(۱) ترتیب جیسے فَامٌ زَيْدٌ فَعَمْرُو۔
(۲) تعقیب جیسے حَسْبُ زَيْدًا فَعَمْرُو۔
(۳) سَبَبٌ جیسے حَضْرَبٌ زَيْدًا فَعَمْرُو۔
(۴) رابطہ - جواب شرط میں جیسے اِنْ كُنْتُمْ
تَحْبُوْنِي فَاَحْفَظُوْا صَيَابِي - شہد جواب شرط
میں جیسے الَّذِي يَاتِيَنِي فَلَهُ دَرْهَمٌ۔
(۵) نائبہ مضارع کیلئے بتدویر اَنْ جیسے زُرْنِي
فَاَكْرِمَكِ۔
(۶) استیناف کیلئے جیسے يَهْرُقُلُ كُنْ فَيَكُوْنُ۔
(۷) زائدہ جیسے زَيْدٌ فَلَا تَضْرِبُه - خَوْجَتْ فَاَذُ
الْاَسَدِ فِي الدَّارِ - وَلَمَّا قُمْتُ فَفَقِنَا۔
اِفْعَالٌ - بڑا یہ: رائے میں متفرق ہونا - اکیلا ہونا
عَلَى الْبَاطِلِ: گمراہ لینا۔
اَفْعِيَّتٌ - اچھا ک مرمانا۔
فَاَذَةٌ (ف) فَاَذًا - دل پر مارنا۔ دل پر لگانا۔ فَاَذُ
الْخَوْفِ فُلَانًا: بزدل بنانا۔ اللُّحْمُ فِي
النَّارِ: گوشت بھونا۔ الْمُخْبِرُ: روٹی کو
بھول میں ڈالنا۔
فَيْدٌ فَاَذًا وَفَيْدٌ (س) فَاَذًا - دل کی بیماری
والا ہونا۔
اِفْعَادُ الرَّجُلِ: بھوننے کیلئے آگ جلانا۔
اللُّحْمُ فِي النَّارِ: گوشت بھونا۔
تَفَاعُلٌ - النَّارُ: آگ کا جلانا۔
الْفَوَادُ - دل - بسا اوقات محل پر بھی اطلاق
ہو تا ہے - ج اَفْعَدَةٌ۔
الفَيْدُ - آگ - بھنا ہوا - بزدل۔
الْاَفْوُودُ - بھولگی کی پکی ہوئی روٹی - بھولگی
میں روٹی رکھنے کی جگہ - ج اَفَايِنِدُ۔
المَفْعَادُ - آگ جلنے کی جگہ۔

جاتا ہے "هَذَا لَا يُسَاوِي فَتْحًا" یعنی یہ میٹھی کے برابر نہیں۔ کجوروں کا ڈیر۔

الفتحات۔ چورا۔

الفتيحة۔ ریزہ ریزہ شدہ چیز کا ایک کلوچ کا قبائٹ۔

الفتيضة والفتوطة والفتوطة۔ چورا کیا ہوا۔
فتأ (ف) فتأ التار: آگ بجھانا۔ فتأة عن الأثر: کسی کام سے روک دینا۔

فتيئ (س) فتأ عثه: رکنا۔ بھولنا۔ کہا جاتا ہے "مَا فَتَأْتُ (س) وَمَا فَتَيْتُ (س) يَفْعَلُ ذَلِكَ لِي" ہمیشہ یہ کرتا رہا۔ اور یہ افعال ناقص میں سے ہے اور سوائے ماضی و مضارع کے دوسرے افعال کا استعمال نہیں۔

فتح (ف) فتحها الباب: دروازہ کھولنا۔

الفتاة: پانی پینے کے لئے تالی نکالنا۔

البلاد: ملک پر غالب ہونا۔ مالک ہونا۔ فتح

کرنا۔ الحاکم يَمُنُّ النَّاسَ: حاکم کا فیصلہ

کرنا۔ اللَّهُ عَلَيْهِ: سکھلا دینا۔ پھنچا دینا

سورة علي فلان: کسی پر بھید ظاہر کر دینا۔

فتحوا فتحة الله على فلان: مدد کرنا۔

فتح: بمعنی فتح تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔

تفتح كمانا: فی الكلام: بالممال

على فلان: اظہار کرنا اور فخر کرنا۔ تَضَحَّتْ

الاکمة عن الشئ: کھل جانا۔ التور: کلبوں کا

کمانا۔ انفتح كمانا: انفتح عن الشئ: کھل

جانا۔

فاتحة: فیصلہ کے لئے لے جانا۔ فاتحة

بلازم: پہلے مخاطب کرنا۔ فاتح فلاناً: بھاؤ کرنا

اور کچھ نہ دینا۔ فاتح التبع: تبع میں آسانی کرنا

المرأة عورت سے جماع کرنا۔

تفتح القوم كلاماً بينهم: آپس میں چپکے

چپکے باتیں کرنا۔

انفتح البلاد: ملک فتح کرنا ()

واستفتح الابواب: دروازے کھولنا

الأمور بكذا: شروع کرنا۔ انفتح الرجل: مدد

طلب کرنا۔

الفتح: قاج فتحته وفاتحون۔

الفتح: مدد۔ روزی۔ دریاؤں کا جاری پانی۔

بہاری پہلی بارش فتح فتح۔ يوم الفتح: قیامت

کلان۔ الفتح: زبر۔

الفتوحات: لڑائی سے جو ممالک فتح ہوں۔

الفتحة: ایک مرتبہ کھولنا۔ زبر۔

الفتاحة: مدد۔

الفتاحة والفتاحة: دو دشمنوں کے درمیان

فیصلہ۔ کہا جاتا ہے "بينهما فتاحات" یعنی ان دو

کے درمیان خصوصیتیں ہیں۔

الفتح: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

الفتحة: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع

شیشی۔

فتح۔

فتح (ن) فتحوا وفتأوا وفتتوا تیزی کے

بعد ساکن ہونا اور تختی کے بعد نرم پڑنا

الماء: حرارت کم ہونا۔ عن العمل:

کو تباہی کرنا۔

فتحوا وفتتوا جشمه: کمزور نرم جوڑوں والا

ہوتا۔

فتنة وفتنوا: الحزب: کم ہونا۔

فتنة (ن) فتحوا: انگوٹھا اور انگشت شہادت

کے درمیان تاپنا۔

فتح: تیزی کے بعد ساکن ہونا اور تختی کے بعد

نرم پڑنا۔ السحاب: ٹھہرنا اور آمادہ

بارش ہونا۔ فتنة: سکون و نرمی پر برا بیعت کرنا۔

فتح الماء: گرم پانی کی حرارت کو کم کرنا۔

أفتن: کمزور پکوں والا ہونا۔ السواب:

شراب کا مست کر دینا۔ الذاء او

الشکر: بیماری یا نشہ کا کسی کو ضعیف و کمزور کر

دینا۔

استفتن: الفرس: سواری چھوڑ دیے جانے

کی وجہ سے تھکن دور ہو کر آرام پانا۔

الفتح: کمزوری۔ فتور:

الفتح: انگشت شہادت اور انگوٹھا کے درمیان

کھلی ہوئی حالت میں۔

الفتح: آٹا پھانسنے کیلئے کھجور کی پٹائی۔

الفتحة: سستی و کمزوری۔ صلح: بخار کے

دوباری کے درمیان کا زمانہ۔ دو نبیوں کے

درمیان کا زمانہ۔ فتح الفتوات:

والفتح: ایک قسم کی پھلی جس کے پکوانے سے

کھلکی پیدا ہوتی ہے۔

الفتار: مدد۔ بیوشی کی ابتدا (ماتة فتانوز) نیم

گرم پانی۔

فتنة فتنة: کمانا۔

فتش (ض) فتشوا وفتش الشئ: ڈھونڈنا۔

تلاش کرنا۔ فتش وفتش عنه: سوال کرنا اور

بحث کرنا۔

الفتاش: بہت تلاش و جستجو کرنے والا۔

فتح (ف) فتحوا الشئ: روند کرنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔

فتتح: ریزہ ریزہ ہونا۔

فَفْتَنَ إِلَيْهِ فَفْتَنَتْهُ جِيكے جیکے بات کہنا۔ کہا جاتا ہے "ما هَذِهِ الْفَتْنَةُ وَالذَّلَّةُ"
 الفتنایف۔ پوشیدہ اقوال۔
 فَتَنَ (ن ض) فَتَنًا وَفَتْنًا وَفَتَنَ الشَّيْءُ: پھاڑنا
 الشُّؤْبُ: کپڑے کی سیون توڑنا۔ اُدھیرنا
 الْمَسْكُ: منگ کی خوشبو نکالنا۔
 الْعَجِيْبُ: گندھے ہوئے آنے میں خمیر ڈالنا۔
 بَيْنَ الْقَوْمِ: اختلاف پیدا کرنا۔
 الْكَلَامُ: واضح کرنا۔
 فَيَقِي (س) فَتْنًا: مکان۔ سرسبز ہونا۔
 أَفْتَقَ: القَوْمُ: کھلے بادل پر جانا۔ قُرْبُ
 الشَّمْسِ: آفتاب کا بالادوں میں ظاہر ہونا۔
 السَّحَابُ: بادل کا کھل جانا۔
 الرَّجُلُ: مختلف مصائب و آفات والا ہونا۔
 فَتَنَ وَافْتَنَ: پھیلنا و افتنقت الماشية: مویشی کا موٹا ہونا۔ فَتَنَ فَلَانٌ بِالْكَلامِ: زبان کا رواں ہونا۔
 الْفَتْنُ: مہ۔ کشادہ جلد۔ کہا جاتا ہے "مَنْ رَاحَ فَلَانٌ إِلَى فِتْنٍ" فلاں ایسے مقام کی طرف نکلا جہاں بارش نہیں اور ارد گرد میں بارش ہے جی فُتُونٌ کہا جاتا ہے "عَامٌ ذُو فُتُونٍ" کم بارش کا سال۔ سرسبز۔ قط سال۔ زندگی میں غل۔
 الْفَتْنُ وَالْفَتْنُ: صبح۔
 الْفِتَاقُ: خمیر کا بڑا پیڑا۔ آفتاب۔ آفتاب کی شعاع۔ درخت خرمائی سفید جڑ۔ دو ایوں کا مرکب۔
 الْفُتُوْقُ: آفات جیسے مرض بموک فعیری توڑی بارش۔
 الْفَيْتِيُّ: موٹائی سے پھٹ پڑنے والا۔
 الصَّبْحُ الْفَيْتِيُّ: چمکنے والی صبح۔ زَجْلُ الْفَيْتِيُّ اللِّسَانِ تیز زبان مرد۔
 اِمْرَاةٌ فَتْنٌ وَفَتْنَةٌ: تیز زبان۔ جلد جواب دینے والی عورت۔
 الْمَفْتُوْقُ: منقہ فتح کی بیماری والا۔
 الْفَيْتِيُّ: دربان۔ بڑھی۔ لوبار۔ بادشاہ۔
 مَفْتَقُ: الْقَمِيصُ: قمیص کا گریبان۔
 الْفَتَقَاءُ: کشادہ شرمگاہ والی عورت۔
 فَنَكًا (ن ض) فَنَكًا وَفَنَكًا وَفَنَكًا وَفَنَكًا

الرَّجُلُ: ڈیرہ ہوتا۔ ہمار ہوتا۔ نذر ہوتا۔
 يَفْلَانُ: غفلت میں پڑنا یا قتل کرنا۔
 فِي الْأَمْرِ: کسی کام میں اصرار کرنا۔ مبالغہ کرنا۔
 فَتَكَ (ن ض) فُتْنًا: فِي صِنَاعَةٍ: اپنے پیش میں ماہر ہونا۔ فِي الْخُبَيْتِ: خیانت میں مبالغہ کرنا۔
 فَتَكَ: الْفَطْنُ: بروئی ذمہ۔
 أَفْتَكَ: الرَّجُلُ: بمعنی فَتَكَ۔
 فَاتَكَةً مَفَاتِكَةً: حکم کھلا قتل کرنا فَاتَكَ الشَّيْءُ وَالْأَمْرُ: کسی کام کو سختی سے کرنا۔ ہ۔ ہنر مندی سے مقابلہ کرنا۔ اگئی ہوئی قیمت دینا۔
 تَفْتَكَ: بِأَمْرِهِ: خود رائی سے کام کرنا اور کسی سے مشورہ نہ کرنا۔
 الْفَاتِكُ: فَا۔ ذَلِيْر۔ ہمار۔ ج فَتَاك کہا جاتا ہے "هُوَ فَاتِك الْقَلْبُ" یعنی وہ کرگزرنے والا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَفْتَكَةُ" یعنی کس قدر جھگڑا ہوے۔
 قَتَلَ (ض) قَتَلًا وَقَتَلَ: الْخَيْلُ: رشتی بٹنا۔ کہا جاتا ہے "قَتَلَ وَجْهَهُ عَنْتَهُمْ" یعنی ان سے اپنے چہرے کو چھیر لیا "وَقَتَلَ ذُوَابَةَ فَلَانٍ" یعنی اس کو رائے سے ہٹا دیا۔ قَتَلَ النَّبَلُ: چھمانا۔ اور مثال ہے "مَا زَالَ يَفْتُلُ مِنْ فَلَانٍ فِي الذُّوْقِ وَالْعَارِبِ" یعنی وہ فلاں کے فریب دہی کیلئے پکڑ لگاتا ہے۔
 فَيْتَلُ (س) قَتَلًا: بعید پہلوؤں والا ہونا۔ صفت (افعل مؤنث فتلأة)
 تَفَتَّلَ وَافْتَتَلَ: رستی وغیرہ کا ہٹ جانا۔
 الْفَتْلَةُ: فعل کا اسم مرتہ۔ ہاتھ کے پٹھے کی سختی۔ بیری اور بھول کے دانہ رکھنے کا برتن۔ جن فتل۔
 الْفَتْلَةُ: درخت غُرْفُط اور عضلہ کا دانہ ج فعل۔ کہا جاتا ہے "مَا أَعْنَى عَنكَ فِتْلَةُ أَوْ فِتْلَةٌ" یعنی میں تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دوں گا۔
 الْفَيْتَلُ: بنا ہوا۔ مَوْتٌ فَيْتَلَةٌ: گھجور کی سھیل کے شکاف کی باریک بتی (ج) وَالْفَيْتَلَةُ: بدن کے میل کی بتی جو بدن کے ٹٹنے سے بنتی ہے۔ کہا جاتا ہے "مَا أَعْنَى عَنكَ فَيْتَلًا" یعنی میں تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکا۔ الْفَيْتَلَةُ: بتی۔ ج فِتَالِيلُ وَفَيْتَالَاتُ

میں غالب ہوتا۔

فَتِي (س) فَتَى وَتَفَتَى تَفْتِيًا. جوان ہوتا۔

فَتَى تَفْتِيَةً وَتَفَتَى تَفْتِيًا. فَتِيَتِ الْبَيْتِ وَ

تَفَتَتْ: پردہ نشینی کرنا۔ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے

سے لڑنا۔ تَفَتَى الرَّجُلُ: صاحب سخاوت ہونا۔

جوانمردی بنا۔ کہا جاتا ہے "أَبْرَأُ مِنْ شَيْخٍ يَتَفَتَى."

أَفْتَى الْفَتَاةَ: فَلَانًا فِي الْمَسْأَلَةِ: فتویٰ دینا۔

فَاتَى: الرَّجُلُ: جوانمردی میں غالب ہونا۔

فتویٰ پڑھنا۔

تَفَاتَى: صاحب سخاوت ہونا۔ جوانمردی ظاہر

کرنا۔ تَفَاتَوْا إِلَى الْعَالِمِ: فتویٰ دریافت کرنے

کے لئے جانا۔

اسْتَفْتَى اسْتِفَاءً: الْعَالِمِ فِي مَسْأَلَةٍ: فتویٰ

طلب کرنا۔

الْفَتَاءُ وَالْفُتُوَّةُ: جوانی۔ الْفُتُوَّةُ: سخاوتِ کرم۔

مروت۔

الْفَتْوَى وَالْفَتْوَى: شرعی مسائل

میں ماہر شریعت کا فیصلج الفتاویٰ و الفتاویٰ۔

الْفَتَى: نوجوان۔ فُتَى: غلام۔ اس کا فُتْوَانٌ وَ

فَتِيَانٌ اُورِجَ فَتِيَانٌ وَفِيْتَةٌ وَفُتُوَّةٌ وَفُتُوَّةٌ وَفُتَى

وَفِيْتَى

الْفَتِيَانُ: دن رات۔

الْفَتَاةُ: نوجوان عورت۔ بَانَدَى: جِ فَتِيَاتٍ

وَفُتَوَاتٍ

الْفَتَى: ہر ایک جوان سال جِ فِتَاءٌ وَ اَفْتَاءٌ

مَوْتٌ فَتِيَةً

الْمُفْتَى: ماہر علم فقہ جو مسائل کا

جواب دے۔

فُتَى (ن) فُتَا: الْفَقْفَةُ: نوکری سے کھیر دینا۔

الْحَاوِزُ بِالْبَارِدِ: ٹھنڈا کر دینا۔ جوش کم کر دینا۔

اِنْفَتَى: الْفَوْدُ: کڑی کا ٹونٹا۔ الرَّجُلُ

فَكَتَ دَلَّ هُوَا

لَمَزَا هُتَى (م) مَفْرَقٌ كَهْوَرٌ

الْمَفْقَةُ: زیادتی کثرت۔

فَتَا (ف) فُتَا وَفُتُوَّةٌ: الْبَارِدُ: باریکی کا جوش

ٹھنڈا کرنا۔ الْفَصْبُ: غصہ کی تیزی کم کرنا۔

السُّنَى عُنَى: بروکنا۔

اَفْتَا: ٹھنڈا۔ سست ہونا۔ بِالْمَكَانِ:

اِقَامَتْ كَرْنَا (ن) وَ اِنْفَتَا: الْحَزْ: گرمی کا کم

ہونا۔

فُتَجَ (ن) فُتَجَا: الشُّنَى: کم کرنا۔ الْمَاءُ

الْحَاوِزُ بِالْبَارِدِ: گرمی کم کرنا۔ وَ فُتَجَ وَ اَفْتَجَ

وَ اَفْتَجَ: يُوَجِّعُ يُوَجِّعُ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَحْوِزُ لَا

يَفْتَجُ" فلان، بخرنا پیدا کرتا ہے۔

الْفَاتِيحُ: فَا: حاملہ۔ اُوْتِيَتْ مِجَ فَوَالِحِ:

الْفَاتُوْرُ: سبک رخام کی میز۔ اَقْلَابُ كِي كَلِيه:

فَرَشَ: بڑا پھالہ۔ شربا کا برتن۔ جاسوس۔

فَتَعَ (ف) فُتَعَا: زَامِسَةٌ: بھوڑا۔

فُتِحَ (ن) فُتِحَا: الْقَوْسُ: بگمنا کو کھینچنا۔

مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ: کشادہ اور بعید کرنا۔ فَجَحَتِ التَّاقَةُ

لِلْحَلْبِ: اُوْتِيَتْ كَارِيَةً فِي تَائِلِيں پھیلانا۔

فُتِحَ (س) فُتِحَا: چلنے میں ٹانگوں کے درمیان

کشادہ ہونا۔ صَفَتْ (اَفْتَجَ) مَوْتٌ (فَجَاءَهُ) جِ فُتَجَ:

اَفْتَجَ: مَاتِيْنٌ وَ رِجْلَيْهِ: کشادہ اور بعید کرنا۔ صَفَتْ

(مَفْتَجٌ) فِي الْمَشَى: جلدی چلنا۔ ورہ میں

چلنا اَفْتَجَ الْأَرْضَ بِالْمَحْرَابِ: بل چلانا۔

تَفَاتَجَ: ٹانگیں پھیلا کر چلنا۔

اِنْفَجَحَتِ الْقَوْسُ: بگمنا کا کھینچ جانا۔

اِفْتَجَ الرَّجُلُ: ورہے میں چلنا۔

الْفَجَجَ: ورہ۔ دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ

راست۔ جِ فِجَاجٍ

الْفَجَاجَ: ورہ۔ دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ

راست۔

الْفَجَّ وَالْفَجَاةَ: مِنَ الْفَوَاكِهِ وَ غَيْرِهَا: کچا

میوہ وغیرہ۔

الْفَجَّةُ: دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی۔ کہا جاتا

ہے فَلَانٌ يَمْشِي (مَفْجَاً) یعنی فلاں ٹانگیں

پھیلائے ہوئے چلتا ہے۔

الْاَفْجِيْنَجِ: کشادہ وادی۔ ٹنگ و گہرا۔

الْفَجْجُ: کابل و سست لوگ۔ ایسے لوگ جن کی

صحبت کو ناپسند کیا جائے۔

فَجَا (ف) وَ فَجِي (س) فَجَاً وَ فَجَاةً وَ فَجَاةً

وَ فَجَاةً مَفْجَاةً وَ اَفْتَجَاً اَفْتَجَاةً: الرَّجُلُ:

اچانک آجانا۔ جلدی کرنا۔

الْفَجَاةُ: مم۔ اچانک۔

حَزَفٌ (الْمَفْجَاةُ) لَفْظٌ اِذَا هُوَ جِيءَ حَزَجَتْ

فِيَاذًا اَلْاَسَدُ بِالْبَابِ اُوْرَاسُ كُوَالْفَجَائِيَهْ جِيءَ كَمَا

جاتا ہے۔

فَجَزَ (ن) فُجَزَا: الْمَاءُ: پانی بہانا۔ جاری کرنا

الْقَنَاةُ: نل ٹکانا۔

اللُّدَّةُ الْفَجْوُ: فِجْر طُلُوعُ كَرْنَا فَلَانًا: جھلانا۔ نافرمانی

کرنا۔ مخالفت کرنا۔

فَجَزَ (ن) فُجَزُوا: عَنِ الْحَقِّ: تجاؤز کرنا۔

عَنْ سَزِجِه: زین سے ایک طرف کو جھک

جانا۔

فَجَزَ (ن) فُجَزُوا وَ فُجَزُوا: جھوٹ بولنا۔ زنا

کرنا۔ گناہ کرنا۔ كَزُوْرٌ تَكَاہُ وَالَا هُوَا _____

أَمْرُهُمْ: بگڑنا۔ خراب ہونا۔

مِنْ مَزْرُوعِهِ: صحیح و تندرست ہونا۔

فَجَزَ (س) فُجَزَا: فَيَا ضِي كَرْنَا

فَجَزَ: الْمَاءُ: پانی بہانا جاری کرنا۔ تقدیر مبالغہ

کے لئے ہے۔ الرَّجُلُ: بدکاری کی طرف نسبت

کرنا۔

فَجَزَ فِجَاً اُوْ مَفْجَاةً: الْمَرْأَةُ: زنا کرنا۔

اَفْتَجَزَ: جھوٹ بولنا۔ زنا کرنا۔ كَفَرَ كَرْنَا: حق سے

تجاؤز کرنا۔ فِجْر میں داخل ہونا۔ مَالٌ كَثِيْرًا _____

الزَيْنْبُوْعُ: چشمہ جاری کرنا۔

فَلَانًا: فَا جِرْبَانَا

اِنْفَجَزَ: عَلَيْهِمُ الْعَذُوْ: دشمنوں کی طرف

سے بھگت آجانا۔

وَ تَفَجَزَ الْمَاءُ: پانی کا جاری ہونا۔

الصَّبْحُ: صُحُّ كَا رُوْشَنٌ هُوَا _____

بِالْعَطَاءِ فَيَا ضِي كَرْنَا: اِنْفَجَزَ عِنْدَهُ اللَّيْلُ: رات کا

ختم ہونا۔

اِنْفَجَزَ: فِي الْكَلَامِ: گھڑنا۔ بنا دینی بات کہنا۔

تَفَجَزَ: الْقَوْمُ: گناہوں میں منسک ہونا۔

الْفَجْرُ: بَخْشٌ: عطیہ۔ بھلائی۔ مال و کثرت

مال۔ الْفَجْرُ: مم۔ صُحُّ كِي رُوْشَنِي: کہا جاتا ہے

"ظُرُوْبِي فِجْرٌ" یعنی کھلا ہوا صاف راستہ۔

الْفَجْوَةُ: فَجْرٌ كَا مِرَّةً: کہا جاتا ہے "زَكَبَ

فَجْوَةً" وہ جھوٹ پر سوار ہوا یعنی جھوٹی بات

بنانا اور یہی کلمہ تائید اور عظمت کی وجہ سے غیر

منصرف ہے۔

الْفَجْوَةُ: مِنَ الْوَادِي: وادی کا وسیع حصہ جس

میں پانی بہ رہا ہو۔ ج فججڑ۔

الفَجْجُورَةُ والمَفْجُورَةُ والمُنْفَجِرُ: پانی پینے کی جگہ۔ مُنْفَجِرُ الزَّمَلِ: ریگستان میں راستہ۔

فَجَّارٌ: الفَجْجُورُ کا اسم ہے اور معرّفہ ہے جیسے "فَحَمَلْتُ بِنْتَهُ وَاسْتَمَلْتُ فَجَّارًا" اور عورت کیلئے بھی فَجَّارٌ بمعنی فاجرہ آتا ہے اور صرف نر ہی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔

الفَجَّارُ: کشارہ راستے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوں۔

الفَجَّارِجُ: فا۔ زانی۔ گناہوں کا تابعدار۔ جاوگر ج فاجرز و فجز و فجزوۃ و فجزار۔

الفَجَّارَةُ: مؤنث فاجر۔ کہا جاتا ہے "یَمِينٌ فَاجِرَةٌ" یعنی جھوٹی قسم۔

الفَجْجُورُ: زانیہ۔ زانی۔ گناہوں میں متمسک ج فَجُورٌ۔

الفَجْجُورُ: زنا کار گناہوں میں متمسک۔

فَجَّزَ (ن) فَجَّزًا: تکبر کرنا۔

فَجَّحَسَ (س) فَجَّحَسًا: تکبر کرنا۔ شرارت گھڑنا۔ فَلَائِنًا: غالب آنا۔

أَفْجَسَ: باطل پر فخر کرنا۔

تَفَجَّحَسَ: عَلَيْهِ تکبر کرنا۔ بڑائی ظاہر کرنا۔

فَجَّحَسَ (ن) فَجَّحَسًا: سرتوڑنا۔ چوڑا بنانا۔

فَجَّجَعَهُ (ف) فَجَّجَعًا وَفَجَّجَعَةً: دردمند کرنا۔

مصیبت زدہ بنانا۔ کہا جاتا ہے "فَجَّجَعُ فِی مَخَالِهِ وَبِمَخَالِهِ" اس کو مال کی وجہ سے مصیبت لاحق ہوئی۔

أَفْجَعَتَهُ المَصِیْبَةُ: مصیبت زدہ کرنا۔

تَفَجَّجَعُ: دردمند ہونا۔ صلا اس کا لام ہے۔

الفَجَّاجِعُ: فا۔ براغم جو انسان کو لاحق ہو۔ جدائی کا کڑوا۔ کہا جاتا ہے "امْرَأَةٌ فَاجِعٌ" دردمند عورت۔ زَجَلٌ (فَاجِعٌ وَمُنْفَجِعٌ) دردمند مصیبت زدہ مرد۔ حسرت و افسوس کرنے والا مرد۔

مَوْتٌ فَاجِعٌ وَفَجْجُوعٌ: مصیبت لانے والی موت۔

الفَجَّاجِعَةُ: مصیبت ج فَوَاجِعُ۔

الفَجَّجِعَةُ: مصیبت ج فَجَّاجِعُ۔

فَجَّلَ (ن) فَجَّالًا وَفَجَّلَ (س) فَجَّالًا:

الشَّيْءُ: ڈھیللا اور موٹا ہونا۔

فَجَّلَ الشَّيْءُ: چوڑا کرنا۔

إفْجَلَّ: الأَمْرُ: ایجاد کرنا۔

الفَاجِلُ: فا۔ جواری۔

الفَجْلُ والفَجْلُ: مول۔ واحد فَجْلَةٌ۔

الفَجَّالُ: مولیٰ بیچنے والا۔

الأَفْجَلُ: وہ شخص جس کے دونوں قدموں کے درمیان دُورِی ہو۔

فَجَّجَمَ (س) فَجَّجَمًا: موٹے جڑے والا ہونا۔ صفت (الفَجَّجَمُ)

تَفَجَّجَمَ وَالمَفَّجَمَ: وادی کا کشارہ ہونا۔

فَجَّجَمَةُ الوَادِیِ وَفَجَّجَمَةُ: وادی کی کشارہ جگہ۔

أَفْجِنَ: سداپ کھانے کی مداومت کرنا۔

المَفَّجِنُ: سداپ (ایک قسم کی گھاس)

فَعَجًا یَفْجُو فَعْجًا: الثَّيَابُ: دروازہ کھولنا۔ القَوْسُ: کمان کھینچنا۔

فَجَّجَى یَفْجَى فَجَّجًا: پتھریوں یا پیروں کے درمیان دُورِی کرنا۔ صفت (الفَجَّجَى)

مَوْتٌ لِحِوَاءِ فَجَّجِیةِ القَوْسِ: کمان کا کھینچا ہوا ہونا۔ التَّاقَةُ: اُونٹنی کا بڑے پیٹ والی ہونا۔

تَفَّجَّجَى: کشارہ جگہ ہونا۔

إفْجَجَى: الثَّيَابُ: دروازہ کھلنا۔ القَوْمُ عَنْ فَلَانٍ: عَلَيْهِ ہونا۔ ہٹ جانا۔ القَوْسُ: کمان کھینچ جانا۔

الفَجْجُورَةُ: دو چیزوں کے درمیان کشارگی۔ مکان کا میدان۔ محن۔ کشارہ جگہ ج فَجَّجَاتٌ وَفَجَّجَاءٌ۔

الفَجَّجُورَةُ: مؤنث افججی: کشارہ زمین۔

فَجَّجَى یَفْجَى فَجَّجَى: بمعنی فَجَّجَى الوَادِیِ۔

فَجَّجَى تَفْجِیةُ الشَّيْءِ:

ظاہر کرنا۔ نکال کرنا۔ الشَّيْءُ عَنَهُ: دُور کرنا۔ طعیہ کرنا۔

أَفْجَى الفَجَّاءُ: الرَّجُلُ: بال تپوں پر خرچ میں وسعت کرنا۔

فَجَّ (ن ض) فَجًَّا وَفَجَّجِنًا وَتَفَّجَّحَا حَا النَّائِمُ: سونے والے کا خرابے لینا۔

الأَفْجَى: سانپ کا پینکارنا۔

فَجَّةُ الفَلْفَلِ: مرج کی تیزی۔

الفُجَّحُ: پینکارنے والے سانپ۔

الفَجَّجِیحُ: مم۔ فحیح الأفعی: سانپ کے

مذکری آواز۔

فَجَّحَ (ف) فَجَّحًا: تکبر کرنا۔

فَجَّحَ (س) فَجَّحًا وَفَجَّجَةً وَفَجَّحَ فِی مَشَیْبِهِ: قدم کے اگلے حصے کو قریب اور

ایڑیوں کو دُور کرنا۔ صفت (أَفْجَحَ) فَجَّحَ رَجُلٌ: ناگوار کو پھیلانا۔

أَفْجَحَ: عَنِ الأَمْرِ: رکنا۔ ہٹ جانا۔

تَفَّجَّحَ: الرَّجُلُ: ناگوار کو پھیلانا۔

إفْفَجَّحَتْ: سَاقَاهُ: کشارہ و پیر ہونا۔

فَحَّحَسَ (ف) فَحَّحَسًا: الشَّيْءُ: مِنَ المَاءِ وَغیره: ہاتھ میں لے کر زبان سے چاٹنا۔ جوبی کو ہاتھ سے لٹانا۔

تَفَّحَّحَسَ: فِی مَشَیْبِهِ: ناز سے چلنا۔

فَحَّحَسَ (ک) فَحَّحَسًا وَفَحَّحَسَةً الأَمْرُ: بڑا ہونا۔ فَحَّحَسَتِ المَرْأَةُ: قبیح ہونا اور یوڑی ہو کر ہونا۔

فَحَّحَسَ بِهِ: طعن و تفتیح کرنا۔

أَفْجَحَى وَتَفَّحَّحَسَ: بڑی بات کہنا۔ بڑی بات کرنا۔ أَفْجَحَى الرَّجُلُ: بکل کرنا۔

تَفَّحَّحَسَ الأَمْرُ: قباحت میں زیادہ ہونا۔

تَفَّحَّحَسَ: عَلَيْهِم بِلِسَانِهِ: بد کلامی کرنا۔ گال سنانا۔

الفَجَّاحِشُ: قبیح بد خلق۔ بہت بخیل۔ ہر وہ چیز جو حد سے بڑھ جائے۔ کہا جاتا ہے عَنِ الفَجَّاحِشِ جبکہ اتنا زیادہ نقصان ہو جائے جو عاقل و برداشت نہ کیا جاسکتا ہو۔ زَجَلٌ فَجَّاحِشٌ یعنی قول یا جواب میں حد سے گزرنے والا مؤنث فَجَّاحِشَةٌ۔

الفَجَّاحِشَةُ: زنا۔ بہت سخت قبیح گناہ ج فَوَاحِشُ۔

الفَجَّحَسَاءُ: زنا۔ بہت سخت قبیح گناہ۔

الفَجَّحَاشُ: قاحل کا اسم مبالغہ مؤنث فَجَّاحِشَةٌ۔

الفَجَّحَشُ: مم۔ قبیح قول یا فعل۔

المُتَفَجَّحِشُ: بد زبان بے حیا۔

فَحَّحَصَ (ف) فَحَّحَصًا: عَنَهُ: تفتیش کرنا۔

کھود کرید کرنا۔ المَطَّرُ الثَّرَابُ: بارش کا مٹی کو اٹک پلٹ دینا۔ الثَّرَابُ: کھودنا۔

بِرَجْلِهِ: پاؤں سے کھودنا۔ الظُّلْمَى: ہرن

کا تیز دوڑنا۔۔۔ لِلْمُحْزَةِ: روٹی کے لیے آگ میں جگہ بنانا۔

فَاحِصَةٌ فَحَاصًا وَمَفَاخِصَةٌ: ایک دوسرے کے عیوب اور بھیدوں کی تلاش و جستجو کرنا۔

فَحَصَهُ وَأَفْحَصَهُ: عَنَّهُ: دُور کرنا۔ تَفَحَّصَ وَافْتَحَصَ: عَنَّهُ: کھود کرید کرنا۔ الْفَحْصُ: مہ امتحان، ہر رہنے کی جگہ۔ ج فَحُوصٌ۔

الْفَحْصَةُ: فحص کا اسم مرہ۔ چاہ زرخندان۔ الْفَحِیْصُ: ساتھی کے عیب اور بھید کی ٹوہ میں رہنے والا۔

الْفَحَاصُ: بہت تلاش و جستجو کرنے والا۔ الْمَفْحُصُ: گڑھا جو سنگ خوارے انڈے دینے کیلئے بنایا ہو ج مَفَاخِصُ۔ کہا جاتا ہے لَيْسَ لَهُ مَفْحُصٌ قَطَاةٌ۔

الْأَفْحُوصُ: بمعنی مفتحص ج أَفْحِیْصُ۔

فَحَصَّ (ف) فَحْصًا: توڑنا۔ اکثر اس کا استعمال تریز کیلئے آتا ہے جیسے کڑی وغیرہ۔

فَحْفَحَ: خرائے لینا۔ آواز پڑگانا۔ الْفَحْفَاحُ: وہ شخص جس کی آواز بڑھ گئی ہو۔ بہت بولنے والا۔ مَوْنَتْ فَحْفَاحَةً۔

فَيَحْقُ فَيَحْفَقُ: بَيْنَ رِجْلَيْهِ: ٹانگوں کے درمیان کشادہ کرنا۔

أَرْضٌ فَيَحْقُ (فَيَحْقُ) كَشَادَهُ زَيْنٌ: اِنْفَحَقُ كَشَادَهُ: ہونا۔

فَحَلَّ (ف) فَحْلًا وَافْتَحَلَ: اِبْلَهُ فَحْلًا كَرِيْمًا: عمدہ سانڈ بختی کیلئے ڈھونڈنا۔

تَفَحَّلَ: سانڈ کے مشابہ ہونا۔ الشَّجَرُ: درخت کا بے پھل ہونا۔

اِسْتَفْحَلَ: الْأَمْرُ: بڑا ہونا۔ اِسْتَفْحَلَتْ النُّخْلَةُ: درخت خرم کا زخمی ہو جیسا ہوتا۔

الْفَحْلُ: سانڈ۔ زہر حیوان کا۔ ج فَحُولٌ وَأَفْحُلٌ وَفِحَالٌ وَفِحَالَةٌ وَفَحْوَلَةٌ فَحْوَلُ الشُّعْرَاءِ: فضیلت رکھنے والے شعراء۔ ججو کرنے میں غالب ہونے والے شعراء۔ الْفَعْلُ وَالْفَحَالُ: زخمی جوج فَحَاخِجِلٌ۔

الْفَحْلَةُ مِنَ النِّسَاءِ: تیز زبان عورت۔ ایسے اخلاق والی جو جس عورت کے لائق نہ ہو۔

الْفَحْلَةُ وَالْفَحْوَلَةُ وَالْفِحَالَةُ مَرَاتِلٌ الْفَحِیْلُ: بمعنی فحل۔ صاحب مروی۔ فَحْلٌ فَحِیْلٌ: شریف۔

فَحَمَّ (ف) فَحْمًا: جواب سے ساکت ہونا۔ فَحَمْتُ (ن) فَحْمًا: الْبِئْرُ: پانی ٹھہر جانا۔

فَحْمٌ (س) وَفُحْمٌ فَحْمًا وَفَحَامًا وَفَحْوَمًا وَأَفْحَمَ: الصَّبِيُّ: بچے کا روتے روتے آواز بند ہونا۔

فَحْمٌ (ک) فَحْمًا: مَا وَفَحْوَمَةٌ: کالا ہونا۔ فَحْمُ الشَّيْءِ: کالا کرنا۔

أَفْحَمَةٌ: دلیل دے کر خاموش کر دینا۔ کہا جاتا ہے ”هَاجَاهُ فَأَفْحَمَهُ“ وَ”وَجَدَهُ مُفْحَمًا“ یعنی اس کی جھوکی اور خاموش کر دیا یا خاموش پایا یعنی وہ شعر کہنے پر قادر نہیں تھا۔ أَفْحَمَ الزُّجْلُ: عشاء کے وقت کی تاریکی میں داخل ہونا۔ اَلْهَمُّ الشَّاعِرُ: غم نے شعر کہنے سے منع کر دیا۔

الْفَحْمُ وَالْفَحْمُ وَالْفَحِیْمُ: کوئلہ۔ الْفَحْمَةُ: کوئلے کا ٹکڑا۔ فحمة اللیل: سخت تاریکی ج فحام و فحوم۔

الْفَحْوَمَةُ: سیاسی۔ الْفَحَامُ: کوئلہ بچنے والا۔ ج فَحَامَةٌ۔

الْفَحْوَمُ: جواب نہ دے سکے والا۔ الْفَاحِجِمُ: فَا: مَاءٌ فَاحِجِمٌ: ٹھہرا ہوا پانی۔

الْفَاحِجِمُ وَالْفَحِیْمُ: کالا۔ الْمُفْحَمُ: فَا: جَوَابٌ مَفْحَمٌ: خاموش کر دینے والا جواب۔

الْمُفْحَمُ: مضمون لا جواب۔ شعر نہ کہہ سکے والا۔ الْمُفْحَمَةُ: کوئلہ کی جگہ۔

فَحَا يَفْحُو فَحْوًا وَفَحِيًّا: بِكَلَامِهِ اِلَى كَذَا: اپنے کلام سے کسی مضمون کی طرف اشارہ کرنا۔

الْفَحَا وَالْفَحِي: مسالہ یا ٹک مسالہ ج أَفْحَاءُ۔

الْفَحْوَى وَالْفَحْوَاءُ وَالْفَحْوَاءُ: مِنَ الْكَلَامِ: مضمون کلام ج فَحَاوٌ۔

فَحَّتْ (ض) فَحًا وَفَحَّةً وَفَحْحًا رَجُلًا: ٹانگوں کا کزور ہونا۔ صفت (أَفْحَ) مَوْنَتْ فَحَاخِجٌ فَحَّ:

فَحَّ (ن) فَحًا وَفَحِيحًا اِفْتَحَّ النَّائِمُ خرائے لینا۔ فحخت الافعی: سانپ کا پھسکارنا۔ الزَّائِحَةُ: خوشبو کا بھڑکانا۔

الْفَحَّ: جال۔ ج فَحَاخٌ وَفَحْوُخٌ کہا جاتا ہے ”وَوَبَّ فَلَانٌ مِنْ فَحِّ الشَّيْطَانِ“ یعنی توبہ کر لیا۔

الْفَحَّةُ: خرائے لینے والے کی نیند۔ مُتَدِي عورت۔

فَحَّتْ (ف) فَحْتًا: السَّقْفُ: چھت میں سوراخ کرنا۔ زَائِسَةٌ بِالسَّيْفِ: سر پر تلوار مارنا۔ الشَّيْءُ: کانا۔ الْاِنَاءُ: برتن کھولنا۔ فَحَّتْ الزُّجْلُ: جھوٹ ہونا۔

فَحَّتْ: الْفَاحِجَةُ: فاختہ کا کوئلہ کرنا۔ تَفَحَّتْ: فاختہ کی چال چلنا۔ تَجَبَّ: کرنا۔ اِنْفَحَّتْ: السَّقْفُ: چھت کا سوراخ وار ہونا۔

الْفَحَّتُ: مہ۔ جال۔ چھت میں گول سوراخ چاند کی روشنی یا اس کا سایہ۔

الْفَاحِجَةُ: فاختہ ج فَوَاحِجَتُ الْفَحْحِجِ (ف) فَحْحًا: الزُّجْلُ: تکبیر کرنا۔

فَلَانًا وَبِهِ: ذُكِبَ: مارنا اور بڑائی ظاہر کرنا۔ فَحْحِجٌ (س) فَحْحًا: جدا جدا رانوں والا ہونا۔

صفت (أَفْحَجٌ) فَحَذَهُ (ف) فَحْذًا: ران پر مارنا۔ ران کو توڑنا۔ فَحَذُ: اس کی ران توڑ گئی۔

فَحَذُ قَوْمَةٍ: قبیلے قبیلے کا پکارنا۔ بَيْنَهُمْ: جدا جدا کرنا۔ الْقَوْمُ عَنْ فَلَانٍ: مدد نہ دینا۔

فَلَانًا: قبیلے سے بھگارتا۔ تَفَحَذُ: معاملہ سے ہٹ جانا۔ تَفَحَذَهُ: کسی کی ران پر ران رکھنا۔

اِسْتَفْحَذَ: جھک جانا۔ مطیع ہو جانا۔ الْفَحْذُ وَالْفَحْذُ وَالْفَحْذُ: ران کلمہ مَوْنَتْ ج أَفْحَاذٌ۔

الْفَحْذُ: قبیلے ج أَفْحَاذٌ: یہ کلمہ نہ کہے۔ فَحَزَّ (ف) فَحْزًا وَفَحْرًا وَفَحَازًا وَفَحَازَةً

<p>الفَذْرُ - چاندی۔ مونالزکا۔ الفَاقِرُ - پکا ہوا ٹھنڈا گوشت۔ پہاڑی کبیرا۔ علیحدہ رہنے والی اونٹنی ج فَذْرٌ وَفَوَادِرٌ وَفُدُوْرٌ۔ الفَادِرَةُ - مؤنث فَادِرٌ۔ پہاڑی چوٹی پر بڑی چٹان۔</p>	<p>الفَحْمُ - عظیم المرتبہ۔ مِنَ الْمَنْطِقِ : درست بات۔ الفُحْمِيَّةُ - بڑائی۔ برتری۔ الأَفْحَمُ - عظیم۔ بڑے مرتبہ والا۔ فَدْرٌ (ض) فَدِيدًا - الرَّجُلُ : آواز بلند کرتا۔ دوڑتا۔ الطَّائِرُ : پرندہ کا پھڑپھڑانا۔ فدت الابل : اونٹ کا زمین کو کھروں سے روندنا۔ فَدَدٌ - خرید و فروخت میں چلانا۔ تکبر و غرور سے چلانا۔</p>	<p>وَفِيحِيْرِي وَفِيحِيْرَاءُ وَافْتَحِرُوْ - فخر کرنا۔ فَعْحَرَةٌ : فخر کرنے میں غالب ہونا۔ فَعْحَرَةٌ (ف) وَفَعْحَرَةٌ وَافْحَرَةٌ - عَلِي فَلَانٌ فخر کرنے میں نصیحت دینا۔ فَعْحَرْمَنَةٌ (س) فَعْحَرُوْ وَتَفَعْحَرُوْ - تک سمجھنا۔ ناک چڑھانا۔ تکبر کرنا۔ فَاْحَرَةٌ فَحَاْرًا وَمُفَاْحَرَةٌ - فخر کرنے میں غالب ہونا۔</p>
<p>المَفْدَرَةُ - بہت سے پہاڑی کبیروں کی جگہ۔ أَفْدَسُ الرَّجُلُ : کسی کے گھریا دروازہ پر کھڑوں کا ہونا۔ الفُدْسُ - کڑی۔ ج فُدْسَةٌ۔ الفَيْدِسُ - مٹکا۔ بڑا گھڑا۔ فَدَشٌ (ن) فَدَشًا - راسَةٌ : سر پہوڑنا۔ فَدَشَهُ (ض) فَدَشًا - رفع کرنا۔ الفَدَشُ - مادہ کڑی۔</p>	<p>الفَدَادُ - تکبر۔ بہت چلانے والا۔ بہت روندنے والا۔ سیکڑوں سے ہزار تک اونٹوں کا مالک ج فَدَادُوْنٌ - الفَدَادُوْنُ چرواہے۔ اونٹ والے۔ گائے تیل والے کا شکار اور ان کے علاوہ جن کی آواز کھینچ باری اور مویشی میں بلند ہوتی ہو۔ الفَدَادَةُ - مؤنث۔ فَدَادٌ - سینڈک بڑول۔ فَدْحَةٌ (ف) فَدْحًا - الأَمْوَالُ الحَمَلُ او الدَيْنُ : کسی معاملہ کا یا حاصل کیا قرض کا گرانبار بنا دینا۔</p>	<p>تَفَاْحَرُوْ - القَوْمُ : بعض کا بعض پر فخر کرنا۔ ہر ایک کا دوسرے کے مفاخر پر فخر کرنا۔ اسْتَفْحَرُوْ - الشَّيْءُ : قابل فخر سمجھنا۔ قابل فخر بنانا۔ الفَخْرُ وَالفَخْرُ - مع نصیحت۔ بڑائی۔ الفَخْرَةُ - فخر۔ الفَاخِرُ - ہر چیز میں کا عمدہ۔ الفَخِيْرُ وَالفَخِيْرَةُ - بہت فخر کرنے والا تاک مبالغہ کے لیے ہے۔</p>
<p>فَدِغٌ (س) فَدَعًا - ٹیڑھے جوڑوں والا ہونا۔ صفت (أفدع) مؤنث (فَدَعَاءٌ) ج فَدِغٌ۔ فَدَعَةٌ (ف) فَدَعًا - کھینچنا یا تھوڑا پھاڑنا۔ فَدَعَةٌ - ٹیڑھے جوڑوں والا کر دینا۔ الفَدَعُ - ہاتھ یا پیر کے جوڑ میں کچی جوڑوں کی کچی۔</p>	<p>أَفْدَحَ وَاسْتَفْدَحَ - الأَمْوَالُ ج بوجھل پانا۔ الفَادِحُ - مشکل جو بوجھل کرنے والا ہو۔ کہا جاتا ہے "نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ فَادِحٌ وَرَكِبَ ذِيْنُ فَادِحٍ" اس پر امر گرانبار آ پڑا۔ اس پر قرض گرانبار ہو گیا۔</p>	<p>الفَخُوْرُ وَالفَخِيْرُ - فخر کرنے والا الفَخِيْرُ : فخر کرنے میں مغلوب۔ الفَخَارُ - ٹھیکری۔ کچی ہوئی مٹی۔ واحد (فَخَاْرَةٌ) الفَخَاْرِي - ٹھیکری بیچنے والا کھسار۔ الفَاخُوْرُ - ایک قسم کا پھول ج فَيَاخِيْرُ۔ المَفْحَرَةُ وَالمَفْحَرَةُ - انصاف حمیدہ۔ وہ چیز جس پر فخر کیا جائے۔ ج مَفَاخِرُ۔</p>
<p>المَفْدَغُ - توڑنے کا آلہ ج مَفَادِغٌ۔ فَدَغٌ فَدَغٌ فَدَغَةٌ - آواز بلند کرنا۔ بھاگتے ہوئے دوڑنا۔ الفَدْفُدُ - سخت آواز والا۔ بلند آواز والا۔ بہت زیادہ روندنے والا۔ الفَدْفُدُ - جما ہوا دودھ۔ فَذَكٌ - القَطْنُ : زوئی دھتلا۔ فَذَكَةٌ القَطْنُ : زوئی دھتلا۔</p>	<p>فَدِغٌ (س) فَدِغًا - فَوَادِحُ - مسیبت ج فَوَادِحُ - فَوَادِحُ الذَّهْرِ : مصائب زمانہ۔ فَدِغٌ (ف) فَدِغًا - الشَّيْءُ : توڑنا۔ العُوْدُ : تازہ کھڑی توڑنا۔</p>	<p>فَعْحَرٌ (ف) وَفِيحِرٌ (س) فَعْحَرًا وَفَعْحَرًا وَتَفَعْحَرُوْ - تکبر کرنا۔ بڑائی ظاہر کرنا۔ الفَحْرُ - مع نصیحت۔ فَعْحَسٌ (ف) فَعْحَسًا - الأَمْرُ : ضائع کرنا۔ فَحْفَحٌ فَحْفَحَةٌ - الرَّجُلُ : لغو یا بطل کرنا۔ الفَحْفَحَةُ - مع - کاغذ یا نئے کپڑے کی کھڑکڑاہٹ۔</p>
<p>فَدَمٌ (ض) فَدَمًا - الإِبْرِيْقُ وَعَلَى الإِبْرِيْقِ : چھالک پر سر ہند لگانا۔ فَدَمٌ (ك) فَدَمًا - قَدَامَةٌ - بیوقوف ہونا۔ فَدَمٌ وَأَفْدَمٌ - فَمَ الآيَةُ : برتن پر سرپوش رکھنا۔</p>	<p>فَدْرٌ (ض) فَدْرًا وَفُدُوْرًا - اللَحْمُ الْمَطْبُوخُ : کپے ہوئے گوشت کا ٹھنڈا ہونا۔ فَدُوْرٌ - الحِجَارَةُ : چھوٹے بڑے پتھر توڑنا۔ تَفَدَّرُ - الحَنَجْرُ : پتھر کا ٹوٹنا۔ الفَدْرُ - پہاڑی کبیرا۔ ج فُدُوْرٌ۔ الفُدُوْرُ - پہاڑی کبیرا ج فُدُوْرٌ۔ الفُدُوْرُ - بیوقوف۔ جلدی نوٹنے والی کڑی۔ الفِدْرَةُ - کپے ہوئے گوشت کا سرد ٹکڑا۔ پہاڑ کا ایک حصہ۔ رات کا ایک ٹکڑا۔ ج فِدْرٌ : الفِدْرَةُ - قوم سے علیحدہ رہنے والا۔ تماچے چلنے والا۔</p>	<p>تَفَحَّلُ - علم و وقار ظاہر کرنا۔ عمدہ کپڑے پہننا۔ فَعْحَمٌ (ك) فَحَامَةٌ - مونالزکا۔ عظیم المرتبہ ہونا۔ فَحْمَةٌ - تعظیم کرنا۔ فَحْمُ الحُرُوْفِ فَيُ اللَّفْظُ : حروف کو پڑھنا۔</p>
<p>فَدَمٌ (ك) فَدَمًا - قَدَامَةٌ - بیوقوف ہونا۔ فَدَمٌ وَأَفْدَمٌ - فَمَ الآيَةُ : برتن پر سرپوش رکھنا۔ الفَدَمُ - کلام میں عاجز۔ بیوقوف۔ کم سمجھ۔ گازرے خون والا۔ ج فَدَامٌ - گھر سے سرخ رنگ</p>	<p>فَدَمٌ (ك) فَدَمًا - قَدَامَةٌ - بیوقوف ہونا۔ فَدَمٌ وَأَفْدَمٌ - فَمَ الآيَةُ : برتن پر سرپوش رکھنا۔ الفَدَمُ - کلام میں عاجز۔ بیوقوف۔ کم سمجھ۔ گازرے خون والا۔ ج فَدَامٌ - گھر سے سرخ رنگ</p>	<p>فَدَمٌ (ك) فَدَمًا - قَدَامَةٌ - بیوقوف ہونا۔ فَدَمٌ وَأَفْدَمٌ - فَمَ الآيَةُ : برتن پر سرپوش رکھنا۔ الفَدَمُ - کلام میں عاجز۔ بیوقوف۔ کم سمجھ۔ گازرے خون والا۔ ج فَدَامٌ - گھر سے سرخ رنگ</p>

والا مؤنث فذمة۔
 الفذام والفذام۔ چھوٹی سی چھٹی یا کپڑا جو لوٹے وغیرہ کے مندر پر باندھ دیں تاکہ جو کچھ اس میں ہے صاف ہو جائے فذم۔
 الفذام والفذامة والفذوم۔ بمعنی الفذام۔
 الفذامو الفذامة۔ چھینکا جو اونٹ کے مندر پر باندھ دیں تاکہ کات نہ سکے یا کمان نہ سکے۔
 المفذمات۔ قبضے والے لوٹے۔ سکے۔
 فلن۔ الابل۔ اونٹ کو موٹا کرنا۔
 البناء۔ عمارت کو بلند کرنا۔ الثوب۔ کپڑے کو سرخ رنگنا۔
 الفدن۔ سرخ رنگ۔ بلند عمارت ج افدان۔
 الفدان والفدان۔ بیلوں کی جوڑی جو بل میں جتے ہوئے ہوں۔ ج فدن و افدنة و فدا دین۔
 الفدان۔ کھیتی۔ و فی المساحة۔ چار سو مربع زمین۔
 الفدان۔ فی اصطلاح البنائین ساہل۔
 ج فوادین۔
 الفذوکس۔ شیر۔ مضبوط مرد۔
 فذی یفدی فذی وفذی وفذاء الزجل من الاسر ونحوہ۔ مال وغیرہ دے کر چھڑانا۔ صفت قائل (فاد) اور صفت مغربی (مفدی) کہتے ہیں "فذت المرأة نفسها من زوجها" یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھٹکارا حاصل کر لیا۔
 فذی وفذی تفذیة۔ فلانا بنفسه اپنے متعلق کتا کہ میں تمہارے اوپر نڈا کیا جاؤں۔
 فادی فذاء و مفاداة الزجل۔ چھوڑنا اور نڈیے لے لینا۔ چھڑانا۔
 افذی افذاء۔ فلانا الیسیر۔ کسی سے تیری گاندھی قبول کرنا۔ الزجل۔ موٹا ہونا۔
 تفادی تفادیا القوم۔ ایک دوسرے پر نڈا ہونا۔ بعض کا بعض کے ذریعے سے بچنا۔
 الزجل من کذا۔ پرہیز کرنا اور یکسو ہونا۔
 انفذی انفذاء۔ نڈیہ دیا جانا۔
 افذی۔ یہ۔ نڈیہ دینا۔ منه بکذا۔ پرہیز کرنا۔ کہتے ہیں افذت المرأة نفسها

من زوجها یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھٹکارا حاصل کر لیا۔
 الفذاء۔ جھم۔ موٹاپا۔ ڈھیر۔ انبار جو گیہوں، بھجور وغیرہ رکھنے کا برتن۔ تاجر کے سامان و غلے وغیرہ کی جگہ۔ ج افذیة۔
 الفذاء والفذی والفذی۔ مہ۔ مال جو چھڑانے کے لیے دیا جائے کہا جاتا ہے "فذی لك أبی و فذالك أبی" یعنی میں تمہارے اوپر اپنے باپ کو نڈا کرتا ہوں اور اس جملہ سے ذعاور اظہار محبت اور تعریف و توصیف کا ارادہ کرتے ہیں اور کبھی فعل محذوف ہوتا ہے اور صرف حرب یا کو باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں "بابی التلمیذ المحدث" یعنی میں اس پر اپنے باپ کو نڈا کرتا ہوں۔
 الفذیة۔ مال جو چھڑانے کیلئے دیا جائے فذی وفذیات۔
 فذة (ن) فذا۔ سختی سے دھکارنا۔
 افذت۔ الشاة۔ ایک بچہ جننا۔ صفت (مفذو مفذة) اور اگر یہی عادت ہو جائے تو اس کو (مفذاذ) کہتے ہیں۔
 تفذذوا استفذوا بالأمم۔ خورد رانی کرنا۔
 الفذ۔ مہ۔ اکیلا۔ جوئے کے تیروں سے پلا تیر ج افذاذ و فذوذ و کلیمة (فذة و فاذة) کلمہ شاذہ۔
 الافذ۔ بے پر کا تیر۔ کہا جاتا ہے "اکلنا فذاذی و فذاذی و فذاذا و فذاذا" یعنی ہم نے جدا جدا ہو کر کمایا۔
 فذفذ فذفذة۔ اچانک کوڑنے کے لیے سنا۔
 فذلک فذلکة۔ الحساب۔ فارغ ہونا۔
 الفذلیکة۔ مہ۔ میزائل، مفصل کا خلاصہ۔
 حساب کا ہویا کسی اور چیز کا مولد (فراش) فرا و فرازا و مفرا و مفرا۔ بھانگنا۔
 فز و فزوا۔
 فز (ن) فزوا و فزوا و فزوا۔
 الذابة۔ جانور کی عمر معلوم کرنے کیلئے دانتوں کو دیکھنا۔ الی الشئی۔ جانا۔ عن الأمر۔ کھود کرید کرنا۔ کہا جاتا ہے "فزا الأمر جذعا" معاملہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا۔

فازرثة۔ میں نے اس کے حال کی اور اس نے میرے حال کی تحقیق کی۔
 افز افزاً۔ از اسه بالسنیف۔ تلوار سے سر چھڑا دینا۔ افزت الخیل او الابل۔ اونٹ یا گھوڑے کا دودھ کے دانت کرنا۔ افزة۔ بھگانا۔
 تفازر القوم۔ ایک دوسرے سے بھگانا۔
 تفزّر بالشئی۔ ہنسا۔
 افزّر۔ البزرق۔ بجلی کا چمکنا۔ آہستہ آہستہ ہنسا۔ الشئی۔ سو گھنسا۔
 الفز۔ مہ۔ بھانگنے والا۔ (واحد جمع مذکر مؤنث) الفز۔ جمع ہے (فزان) کی جیسے زکتب۔ جمع (راکب) کی۔ کہا جاتا ہے (هو فز قومہ و فزرتهم) وہ اپنی قوم کا بہترین آدمی ہے۔
 الفزة و الافزة و الافزة۔ اختلاط۔ شدت۔
 من الحز و نحوہ۔ گرمی کی شدت اور اس کی ابتداء۔
 الفزة۔ مسکراہٹ۔
 الافز۔ خوبصورت طریقہ سے ہنسنے اور مسکرانے والا۔
 الفزارو الفزور و الفزورة و الفزورة۔ تیز بھانگنے والا۔ الفزار۔ پارہ۔
 الفزور و الفزیر و الفزار۔ بھیڑ اور بکری کا بچہ۔ الفزیر۔ بھنہ۔
 الفزور۔ بھانگنے کی جگہ۔
 الفزور۔ من الخیل۔ تیز گھوڑا۔ وہ گھوڑا جو بھانگنے کے کام میں آئے۔
 الفزور و الفزراء۔ جنگلی گدھا ج الفراء و فزراء اور عرب کا قول "کل الصید فی جوف الفزرا" بغیر ہزہ کے مش ہے۔ وہ شخص کتا ہے جس کی ہمت سی حاجتیں ہوں اور ان میں سے بڑی حاجت پوری ہو جائے اور اس مقصد کیلئے بھی بولا جاتا ہے کہ وہ باقی حاجتوں کے فوت ہونے کی پروا نہیں کرتا۔
 امز فری۔ گھڑا ہونا۔ بڑا۔
 فزوت (ن) فزوتاً۔ بدکار ہونا۔
 فزوت (ک) فزوتة۔ الماء۔ پانی کا خوشگوار ہونا۔ ضمناً ہونا۔
 فزوت (س) فزوتاً۔ ضعیف العقل ہونا۔

وَأَفْرَدٌ أَكْبَلُهَا هُوَ بِالْأَمْرِ: تمام کام کرنا۔
 فَرْدٌ عَنِ الشَّيْءِ: علیحدہ ہونا۔
 فَرْدٌ لَوْكُلِّ سِدِّهَا هُوَ: فقیہ ہونا۔
 فَرْدٌ بِرَأْيِهِ: رائے میں اکیلا ہونا۔
 أَفْرَدَ الشَّيْءُ: جدا کرنا۔ **الْيَهُورُ سَوْلًا**:
 قاصد بھیجا۔ **بِالْأَمْرِ**: تمام کام کرنا۔
أَفْرَدَتِ الْأَنْثَى: ایک بچہ جنا۔ صفت (مفرد)
تَفَرَّدُوا بِفَرْدِهِمْ: بالآخر بغیر تغیر
 کے تمنا ہونا۔ تمام کام کرنا۔ **وَأَسْتَفْرَدَهُ**: اکیلا پانا۔
 ساتھیوں میں سے نکال لینا۔ **أَفْرَدَ بِهِ**: یگانا کو لینا
 جس کو کوئی ثانی اور مثل نہ ہو۔
الْفَرَادُ - **فَا-الْفَارِدُ** (الفرد) - بیل۔
الْفَارِدَةُ - مؤنث **فَارِدٌ** - بکری جو گھر میں اکیلی
 رکھی جائے۔ **نَاقَةُ فَارِدَةٍ**: چراگاہ میں تنہا چرنے
 والی اونٹنی۔ **فَوَارِدٌ**۔
الْفَرْدُ - ایک طاق۔ **ج-فَرَادٌ** - بے مثال۔ **ج**
أَفْرَادٌ و **فَرَادِي** - واژہ کی ایک ایک جانب۔ ایک
 کلمے کی جوئی۔ **ج-أَفْرَادٌ** - کہا جاتا ہے "هَذَا
 شَيْءٌ فَرْدٌ" یہ منفرد چیز ہے۔
أَفْرَادُ النَّحْوِ و **فَرْدُهَا** - الگ الگ علوم
 ہونے والے ستارے۔ **أَفْرَادُ النَّاسِ** بڑے
 لوگ۔
الْفَرْدُ و **الْفَرْدُ** - ایک۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
 سَيْفٌ فَرْدٌ وَفَرْدٌ" - بے مثال تلوار ہے۔
"وَشَيْءٌ فَرْدٌ وَفَرْدٌ وَفَرْدٌ" یعنی یہ منفرد
 چیز ہے۔
الْفَرْدَةُ - فرد کا مؤنث۔ **ج-فَرْدَاتٌ** و **أَفْرَادٌ**
 و **فَرْدٌ**۔
الْفَرْدَانُ - ایک۔ کہا جاتا ہے "شَيْءٌ فَرْدَانٌ"
 یعنی منفرد ہے اور مؤنث **فَرْدَانِي**۔ کہا جاتا ہے
لَقَيْتُهُ (فَرْدَانِي) یعنی ہمارے ساتھ کوئی نہیں
 تھا۔
الْفَرْدَةُ - تنہا جانے والا۔ کہا جاتا ہے **جَاءَ وَ**
(فَرَادٌ وَفَرَادًا وَفَرْدِي وَفَرَادًا وَفَرَادِي)
 یعنی اکیلے اکیلے آئے۔ واحد (فَرْدٌ وَفَرْدٌ وَفَرْدٌ
 وَفَرْدَانٌ)
الْفَرِيدُ - ایک۔ پھوٹا موتی جو سونے اور
 بڑے موتیوں کے بیچ میں ہو۔ موتی۔ نہیں جو ہرج

فَرَايِدٌ۔
الْفَرَايِدَةُ - مؤنث **فَرَايِدٌ** - نہیں جو ہر۔
 ریڑھ کی بڑی کاوہ مرہ جو دم کی بڑی سے ملا ہوا ہے
ج-فَرَايِدٌ - کہا جاتا ہے "أَتَى بِالْفَرَايِدِ" یعنی
 ایسے الفاظ جو فصاحت و بلاغت اور عربی الاصل
 ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔
الْفَرَايِدُ - موتیوں کا بیچنے والا۔
المُفْرَدُ - مفرد۔ واحد اور اس کے مقابلہ میں جمع
 ہے۔ جنگلی بیل۔
المُفْرَدُ - **مِنَ الذَّهَبِ**: موتی لگا کر جدا کیا ہوا۔
المُفْرَدُ - **فَا-** کہا جاتا ہے "زَاكِبٌ مُفْرَدٌ"
 سوار جس کے پاس اپنے اونٹ یا گھوڑے کے سوا
 نہ ہو۔
فَرْدَسَةٌ و **فَرْدَسَةٌ** - بچھاڑنا۔ زمین پر پٹک دینا۔
الْفَرْدُوسُ - باغ۔ جنت۔ سرسبز وادی (مذکورہ
 مؤنث) **ج-فَرَادِيَسُ**۔ **فَرْدُوسُ التَّعْوِيمِ**: ایک
 جنت کا نام ہے۔
الْفَرْدَسَةُ - مہ۔ گنجائش۔
المُفْرَدَسُ - **فَا-** کشادہ سینہ والا۔ **صَدْرٌ**
(مُفْرَدَسٌ) کشادہ سینہ۔
كُرْمٌ مُفْرَدَسٌ اٹلی گی ہوئی انگور کی بیل۔
فَرْدُوسٌ (فَرْدُوسٌ) **أَوْ** **أَفْرَزٌ** - **الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِهِ**:
 جدا کرنا۔ علیحدہ کرنا و **أَفْرَزَ الصَّبْدَ الصَّائِدَ**:
 شکار کا شکاری کو فریب سے مارنے کا موقع دینا۔
أَفْرَزَ فَلَانًا بِشَيْءٍ خاص کرنا اور کسی کو شریک نہ
 کرنا۔
فَرْدٌ تَفْرُدَةٌ - **عَلَيْهِ بِرَأْيِهِ**: قطعی حکم لگانا۔
فَارَزٌ - شریک نہ۔ الگ کرنا۔
الْفَتْرُزُ - **الْأَمْرُ**: اپنے لوگوں کے مشورہ کے بغیر
 فیصلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "الْفَتْرُزُ أَمْرُهُ دُونَ أَهْلِ
 بَيْتِهِ" اس نے اپنے معاملہ میں اپنے گھروالوں
 سے مشورہ کے بغیر فیصلہ کر لیا۔
تَفَارَزَ - **الشَّرِيكَانِ الشَّرِيكَةَ**: شرکت کو فرغ
 کرنا۔
الْفَرَزُ - مہ دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی دو
 ٹیلوں کے درمیان پست زمین۔
الْفَرَزَةُ - سخت زمین میں شکاف۔
الْفَرَزُ - ٹیلہ کاراستہ۔ ساتھی کیلئے علیحدہ کیا ہوا

حَصَّةُ أَفْرَازٍ وَفَرُوزٍ۔
الْفَرَزَةُ - جدا کی ہوئی چیز کا ایک حصہ۔
الْفَرَزَةُ - **بَارِي** - فرصت۔ ٹیلہ کاراستہ۔
الْفَارِزُ - **فَا-كَلَامٌ فَارِزٌ** - صاحب واضح کلام۔
لَيْسَانٌ فَارِزٌ - فیصلہ کن زبان۔
الْإِفْرِيزُ - **مِنَ الْحَائِطِ**: کارنس **ج-أَفَارِيزُ**
 (دخیل)
الْفَرَزْدُقُ - روٹی جو تور میں گر پڑے۔ روٹی
 کے ٹکڑے۔ گوندھے ہوئے آنے کے پیڑے۔
 واحد (**فَرَزْدَقَةٌ**) اور اس کی تفسیر **فَرُوزِي** یا
فَرُوزِدُجُ اور **فَرَايِقُ** اور قیاس کے لحاظ سے
فَرَايِدُ **الْفَرَزُوقُ**: لقب ایک مشہور شاعر کا۔
تَفْرُزُغُ - **الْكَلَامُ**: گھسا گھسا ہونا۔
الْفَرَزُغُ - بولہ۔
الْفَرَزُغَةُ - **فَرُزُغُ** کا واحد۔ گھاس کا گھٹاج
فَرَاوِغُ۔
فَرَزْلَةٌ و **فَرَزْلَةٌ** - تیر کرنا۔
الْفِرْزَلُ - تیر۔ ہتھکڑی لگانا۔ لوہا کٹانے کی قینچی۔
الْفِرْزَلُ - موٹا آدمی۔
الْفِرْزُولُ - موچوں کا فرم۔
تَفْرُزَانُ - **الْبَيْدُوقُ**: شہرچ میں پیادہ مالکد بنتا۔
الْفِرْزَانُ - شہرچ کی ملکین فرزا زین (دخیل)
فَرَسٌ (ض) **فَرَسًا** و **فَرَسَاتٍ** - **الْأَسَدُ**
فَرَسِيَّةٌ: گردن توڑ دینا۔ شکار کرنا۔ **فَرَسٌ**
الذَّبِيحَةُ رگ گلو کٹ دینا۔ گردن جدا کرنا
الشَّيْءُ جدا جدا کرنا۔
فَرَسٌ (ض) **فَرَسَاتٍ** - **بِالْعَيْنِ**: ظاہر نظر سے
 باطن کو معلوم کرنا۔
فَرَسٌ (ک) **فَرَسَاتٍ** و **فَرُوسَةٌ** و **فَرُوسِيَّةٌ**
 شہسوری میں ماہر ہونا۔
فَرَسَاتُ - **الشَّيْءِ**: بچھاڑنے کیلئے پیش کرنا۔
أَفْرَسٌ - **عَنْ تَقْيِيَّتِهِ مَالٌ**: مال لینا اور کچھ باقی
 چھوڑ دینا۔ **الزَّوْجِي**: گلے کی حفاظت سے
 غافل ہونا۔ **فَلَانٌ** **الْأَسَدُ** **حِمَارَةٌ**: اپنی
 نجات کیلئے گدھے کو بچھاڑنے کیلئے شیر کے سامنے
 کر دینا۔
تَفْرُسٌ - **فِيهِ**: نظر جما کر دیکھنا۔ **فِيهِ** **الْخَيْرُ**:
 کسی کے اندر علامت سے خیر پہچاننا۔

الزَّجَلُ: يتكلف شمسوار ظاہر کرتا۔ کہا جاتا ہے
فَلَانٌ لَيْسَ بِفَارِسٍ وَلَكِنَّهُ يَتَفَرَسُ فَلَانٌ
شمسوار نہیں ہے لیکن وہ شمسوار بننا ہے۔
الفَرَسُ وفَارِسٌ۔ مملکت فارس کے
باشعہ ان کے ملک کو (فارس) اور ان کی زبان
کو (الفَارِسِيَّة) کہتے ہیں۔
الفَارِسِيَّةُ۔ فارس کی طرف نسبت۔ فَرَسٌ کا
واحد۔

الفَرَسُ۔ ایک قسم کی گھاس۔
الفَرَسُ۔ گھوڑا۔ گھوڑی۔ مذکر کو حصان اور
مؤنث کو حَجْرٌ کہتے ہیں اور بسا اوقات مؤنث
کے لیے (فرسہ) بھی استعمال کرتے ہیں اور
فَرَسٌ کی جمع غیر لفظ سے خیل آتی ہے اور اسی
سے اَفْرَاسٌ ہے۔ تین گھوڑوں کیلئے ثَلَاثَةٌ
اَفْرَاسٌ اور تین گھوڑیوں کیلئے ثَلَاثُ اَفْرَاسٍ
کہیں گے اور جمع کثرت فَرُوسٌ آتی ہے۔ اور
عرب کا قول ”هُمَا كَفَرَسِي رِهَانٌ“ جس سے
ان دو شخصوں کیلئے جو کسی ایک مقصد کی طرف
مساہلت کریں اور کوشش اور فضل میں برابر
ہوں۔ فَرَسٌ التَّبَحُّرِ: ایک دریائی جانور ہے جو
بڑے جسم اور بڑے سر کا ہوتا ہے اور اس کی
ٹانگیں اور دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی ہر ٹانگ
میں چار کھر ہوتے ہیں اور اس کو فَرَسٌ التَّهْوِ
اور جَاہُوسٌ التَّبَحُّرِ بھی کہتے ہیں۔

الفَرَسِيَّةُ۔ تفسیر فَرَسٌ کی مؤنث کیلئے۔
الفَرَسِيَّةُ۔ تفسیر فَرَسٌ کی مذکر کیلئے۔
الفَرَسِيَّةُ۔ فَرَسٌ کا اسمِ مرۃ ()
و الفَرَسِيَّةُ (چھوڑا جو گردن میں ہوتا ہے۔
الفَارِسُ۔ فا۔ گھڑ سوار۔ گھوڑے والا ج
فَرُوسَانٌ و فَرُوسٌ اور کہا جاتا ہے ”هُوَ
فَارِسٌ بِالْاَمْرِ“ وہ معاملہ کا جاننے والا ہے۔
الْاَفْرَاسُ۔ شمسواری کا ماہر۔ زیادہ سمجھدار۔
اَبُو فَرَسٍ و الفَرَسُ۔ شیر۔ الفَرَسُ۔ ذکی۔
الفَرَسِيَّةُ۔ مقتول۔ کہا جاتا ہے نَوْرٌ فَرَسِيٌّ و
بَقْرَةٌ فَرَسِيَّةٌ ج فَرَسِيٌّ۔ حلقہ جو رسی کے
سرے پر باندھا جاتا ہے۔
الفَرَسِيَّةُ۔ فریس کا مؤنث۔ جس کو شیر
وغیرہ چھاڑ دیں۔

الفَرَانِسُ و الفَرَانَسُ۔ شیر۔ مونی گردن والا۔
الفَرَانَسُ: بہت زیادہ بہادر۔ دیہاتیوں کا
چودہری۔ ج فَرَانِسَةٌ۔
المَفْرُوسُ۔ گردن کے چھوڑنے والا۔
الفَرُوسُ۔ شیر۔
فَرَسٌ و فَرَسِيَّةٌ۔ الشَّيْ: کشادہ ہونا۔
() و تَفَرَسٌ و اِفْرَسٌ (تَفَرَسٌ) التَّبَرُّدُ او
الْمَرَضُ: سردی یا بیماری کی تیزی کا کم ہونا۔
تَفَرَسٌ و اِفْرَسٌ الهم عتہ: غم کا دور
ہونا۔ زائل ہونا۔

الفَرَسِيَّةُ۔ راحت۔ سکون۔ مدت طویل۔ ہمیشہ
رہنے والی چیز۔ شگاف۔ فَرَسٌ الطَّرِيقِ تین
میل باہمی۔ اور بقول بعض بارہ ہزار گز اور یہ تقریباً
آٹھ کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے ج فَرَايسِحٌ (کلمہ
فارسیہ ہے) سَرَاوِيلٌ (مَطْرَسِيَّةٌ) کشادہ
شلوار۔

اَلْفَرَسِيَّةُ۔ اُونٹ کے کھر کا کنارہ (مؤنث) ج
فَرَايسِنُ۔
رَجُلٌ (مَفْرَسِيٌّ) الوَجْهُ: پُر گوشت چہرہ والا
مرد۔

فَرَسٌ (ان ش) فَرَسَا و فَرَانَسَا۔ الشَّيْ: بچھانا
فَلَانَا اَمْرًا: کشادہ کرنا۔ الزَّجَلُ: جھوٹ
بولنا۔ الْاَمْرُ: بچھیلانا۔ عتہ:
ارادہ کرنا۔ تیار ہونا۔

فَرَسَا التَّبَاتُ: نباتات کا زمین پر پھیلنا۔
فَرَسٌ: فَلَانًا بِسَاطًا: کسی کیلئے بچھونا بچھانا۔
فَرَسٌ الدَّارَ: فرش لگانا۔ ایسٹ اور پتھر بچھانا
الزَّرْعُ: پھیلنا اور پتوں کا بڑھنا۔
الطَّائِرُ: پرندہ کا پھیر پھراننا۔
اَفْرَسَةٌ: بِسَاطًا: کسی کیلئے بچھونا بچھانا۔
اَفْرَسُ السَّنِيْفِ: تلوار کی دھار کا پتلا کرنا۔ تیز
کرنا۔ الشَّجْوُ: درخت کا لمبی شمش والا ہونا۔
عتہ: علیحدہ ہونا۔ ڈور ہونا۔ الزَّجَلُ: غیبت
کرنا اور بڑی بات کہنا۔ الْمَكَانُ: زیادہ
پڑنے والا ہونا۔ الشَّاةُ لِلذَّبْحِ: زمین پر ذبح
کرنے کیلئے لٹانا۔ الزَّجَلُ: چھوٹنے والا
ہونا۔

تَفَرَسٌ۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا پھیر پھراننا۔

اَلْفَرَسُ۔ ذِرَاعِيْنِه: بازو بچھیلانا۔
الشَّيْ: روندنا۔ الطَّرِيقِ: چلنا۔
الزَّجَلُ: بچھاننا۔ اَمْرًا فَلَانٌ: بچھانا کرنا
عِيْضَةً: بے عزتی کرنا۔ الشَّحَّةُ
الدِّمَاغِ: بغیر نونے کے پھلنا۔ الْمَالُ:
غصب کرنا۔ الشَّيْ: بچھیلانا۔

الفَرَسُ۔ مہ۔ بچھونا۔ کشادہ زمین چھوٹے
چھوٹے درخت چھوٹی چھوٹی لکڑیاں۔ چھوٹے
چھوٹے اُونٹ (اور اس معنی کے لحاظ سے جمع
نہیں) جھوٹ۔ کھینچ۔ جبکہ اس کے تین پتے نکل
آئیں۔ وہ جگہ جہاں بکھرت نباتات ہوں۔ گائے
بکری جو زخ کے قابل نہ ہوں۔

الفَرَسِيَّةُ۔ فرش کا اسمِ مرۃ۔ عِنْدَ
العَامَّةِ: بچھونا۔
الفَرَسِيَّةُ۔ بچھاننے کی ہیئت۔ کہا جاتا ہے هُوَ
حَسَنُ الفَرَسِيَّةِ یعنی وہ اچھی حالت میں بچھا ہوا
ہے۔

الفَرَاشُ۔ زمین پر خشک شدہ کچھڑ۔ مِّن
التَّبِيْدِ: شرب کے بلبے۔ زبان کے نیچے دو سرخ
رگیں۔ دو لوہے جس سے لگام کو باندھتے ہیں

الفَرَاشُ مِّنَ الرِّجَالِ: بہت ہلکا پھلکا مرد۔
الفَرَاشُ۔ بچھونا۔ گھونسل۔ منہ کی جڑ میں زبان
کی جگہ جہاں اَفْرَسَةٌ و فَرُوسٌ۔
الفَرَاشُ۔ بہت بچھاننے والا۔

الفَرَاشَةُ۔ پتلی بڑی یا پتلا ہوا۔ تھوڑا پانی۔
مِنَ القِفْلِ: تالے کا جھڑ۔ کندھوں کا اٹھا ہوا
حصہ اور (فَرَاشُ الدِّمَاغِ) کا واحد ہے اور
فَرَاشُ الدِّمَاغِ ان پتلی پتلی ہڈیوں کو کہتے ہیں کہ
جو گھوڑی تک پہنچتی ہیں۔ الفَرَاشَةُ: پروانہ
اور اچھی طبیعت کا مرد۔ کہا جاتا ہے ”مَا هُوَ اِلَّا
فَرَاشَةٌ“ اور یہ حقارت اور خست کے لیے
مخس ہے ج فَرَاشٌ۔

الفَرَشِيَّةُ۔ مِّنَ التَّبَاتِ: زمین پر پھیلی ہوئی
بتل۔ گھوڑی جس نے حال ہی میں پتہ دیا ہو۔ ج
فَرَايشُ۔
المَفْرَاشُ۔ بچھونا۔
المَفْرَسَةُ۔ کچادہ پر بچھانے کا چھوٹا سا بچھونا۔
ج مَفْرَاشٌ۔

عَلَيْهِ وَشَوْلًا: قاصد بھیجا اللہ
عَلَيْهِمَا يَكُونُ: دور کرتا-ہٹاتا-دفع کرتا۔

أَفْرَطَ: جانب زیادتی اور حد سے بڑھ جانا۔
جلدی کرنا _____ رَشَوْلًا: قاصد بھیجنا

الَاهِرَ: بھولنا اور چھوڑنا _____ الْإِنَاءَ: برتن کو
لباب بھرنا _____ يَبِيدُهُ إِلَى السَّيْفِ لِيَسْتَلَّهُ: تلواری کھینچنے میں جلدی کرنا _____ عَلِيَّ

الرَّجُلِ: _____ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا
_____ فَلَانٌ وَلَدًا: نابالغ بچے کا وفات پانا
_____ الشَّيْءِ: بھولنا۔ چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے "مَا

أَفْرَطَ مِنْهُمْ أَحَدًا" یعنی کسی کو نہیں چھوڑا۔
فَازَ ظَلَمٌ فِرَاطًا وَمُقَارَظَةً: سبقت لے جانا۔ پا

لیم۔
تَفَرَّقَ الشَّيْءُ: وقت گزر جانا _____
الْفَرَسُ الْخَيْلِ: گھوڑے کا سابق ہونا۔ آگے

بڑھ جانا۔
تَفَارَظَ: آگے بڑھنا _____ الْقَوْمَ: آگے
بڑھنے کی کوشش کرنا _____ الشَّيْءِ: وقت کا

جاتا رہنا۔ کہا جاتا ہے "تَفَارَظْتَ الصَّلَاةَ عَنْ
وَقِيئًا" یعنی نماز اپنے وقت سے مؤخر ہو گئی
تَفَارَظَ ظَلَمٌ الْهَيْمُومَ: غموں کا لاحق ہونا۔

انْفَرَطَ: کھلنا۔
الْفَرَطُ: وَلَدًا: چھوٹے بچے کا مرنا۔

إِلَيْهِ فِي الْاهِرِ: آگے بڑھنا۔ سبقت کرنا۔ کہا جاتا
ہے "فَلَانٌ لَا يُفَرِّطُ إِحْسَانًا" یعنی فلاں کے
احسان کے قوت ہونے کا خوف نہیں کیا جاتا۔

الْفَرَطُ: مہ۔ افراط کا اسم ہے۔ ٹیلہ کا سرا۔
پھاڑی کی چوٹی۔ راستہ کا نشان۔ جِ الْفَرَطُ وَالْفَرَاطُ
الْفَرَطُ: وقت اور کہا جاتا ہے آئینہ فَرَطًا: میں

اس کے پاس چند دن کے بعد آیا اور یہ پندرہ دن
سے زائد اور تین دن سے کم نہیں ہوتا۔ آئینک
فَرَطٌ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَيْنِ یعنی ایک یا دو دن کے بعد
آؤں گا" وَلَا أَفْقَاهُ إِلَّا فِي الْفَرَطِ" یعنی چند ایام

میں ایک مرتبہ ہوں گا۔
الْفَرَطُ: دامن کوہ۔
أَفْرَاطُ: الصَّبَاغُ: صُغِ كِي پملی شعاعیں۔

الْفَرَطُ: پانی کی طرف قوم سے آگے بڑھنے
والا۔ اس میں واحد جمع برابر ہیں۔ کہا جاتا ہے

رَجُلٌ فَرَطٌ قَوْمٌ فَرَطٌ اور اسی سے ہے "أَنَا
فَرَطُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ" الفَرَطُ: پہلا پتھرا ہوا

اجز۔ جلد بازی۔ وہ کام جس میں کوتاہی کی جائے۔
نابالغ بچہ۔ کہا جاتا ہے "سَبَقَهُ فَرَطٌ كَثِيرٌ" نابالغ
بچے مر گئے اور مردہ بچے کے جنازہ کی دعائیں۔ کہتے

ہیں ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَدَا فَرَطًا)) یعنی اے اللہ اس
کو ہمارے لیے آجربنادے جو ہم سے پہلے پہنچ
جائے۔

الْفَرَطُ: چھوڑا ہوا کام۔ حد سے گزرا ہوا حد
سے تجاوزِ ظلم و زیادتی۔ تیز گھوڑا جو سارے
گھوڑوں سے بڑھ جائے۔

الْفَرِظَةُ وَالْفَرِظَةُ: لٹکانا اور آگے بڑھنا۔ کہا جاتا
ہے "هُوَ ذُو فَرِظَةٍ فِي الْبِلَادِ" یعنی بہت سڑوں
والا ہے۔

الْفَرِظَةُ وَالْمَاءُ الْفَرِاطُ: پانی جو چند قبیلوں کے
درمیان مشترک ہو اور جو پہلے پہنچ جائے اسی کا ہو
جائے۔ بِئْتُو فَرِاطَةً: بھی کہا جاتا ہے یعنی مشترک

کنواں تَكَلَّمَ فَرِاطًا: بے کعبے بولنے والا۔
مُقَارَظَةُ الْبِلَادِ: اطراف بلاد۔
فَرِطَاحٌ فَرِطَاحَةٌ: الشَّيْءُ: چوڑا کرنا۔

رَأْسُ فَرِطَاحٍ وَمُقَرَّطُحٌ: چوڑا سر۔
فَرِطَاحٌ الْخَنْزِيرُ: ناک لمبی کرنا۔
فَرِطَاحَةٌ وَمُقَرَّطَاحَةٌ: سور کی ناک۔

الْفَرِطَاحَةُ: ناک کا باندھنا۔ جِ الْفَرِاطِطِيسِ:
الْفَرِطَاحُ: چوڑا۔
الْفَرِطَاحُ: موزہ کا سرا۔ صحیح کاف سے قرطوم

ہے۔
فَرِطَاحٌ (ف) فَرِطًا وَفَرِطًا: الْجَبَلِ: پہاڑ پر
چڑھنا _____ الْوَادِي: وادی میں اترنا _____

الْأَرْضِ: زمین میں پھرنے لگانا _____ الْقَوْمَ: قوم
سے شرافت اور جمال میں فائق ہونا _____
الْفَرَسُ بِاللِّحَامِ: گھوڑے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا

_____ رَأَسَهُ بِالْعَصَا: سر راہی مارنا _____
بَيْنَ الْقَوْمِ: روک بن جانا یا اصلاح کرنا۔ کہا جاتا
ہے "هَذَا أَوَّلُ صَيْدِ فَرِطَاحَةٍ" پہلا شکار ہے جس کا
خون گرایا گیا ہے۔

فَرِطَاحٌ (س) فَرِطًا: کثرت سے ہالوں والا ہونا۔
صَفَتْ (أَفْرَع) مَوْنَتْ فَرِطًا: جِ فَرِطًا: _____

فَرِطَاحٌ فِي الْجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔
مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ سے اترنا _____ يَتَنَهَمُ

تَفَرَّقَ كَرْنَا _____ الْمَسَائِلَ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ:
فَرِطَاحٌ كَالْإِسْتِثْنَاءِ كَرْنَا _____ فِي الْأَرْضِ: زمین
میں پھرنے لگانا۔

أَفْرَعٌ مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ سے اترنا _____
بِالْقَوْمِ: قوم کے پاس نازل ہونا _____ الشَّيْءِ:
طویل و بلند ہونا _____ الْاهِرَ: شروع کرنا

_____ اللِّحَامِ الْفَرَسِ: لگام کا گھوڑے کو
لو لمان کرنا۔ أَفْرَعَتْ الضَّيْغَ الْعَنَمِ أَوْ فِي
الْعَنَمِ: بچو کا بکریوں میں چلبلی ڈالنا اور خون آلود

کرنا۔ أَفْرَعَتْ الْإِبِلَ: اونٹنی کا پہلا بچہ جینا
_____ الْقَوْمِ مِنْ سَفَرِهِمْ: وقت سے پہلے سفر
سے واپس آنا۔

الْأَرْضِ: زمین میں پھرنے لگانا _____
الْفَرِطَاحَةُ: پہلا بچہ ذبح کرنا _____ أَهْلَهُ: کنبیل
ہونا۔

حَاجَتَهُ أَوْ سَفَرَهُ: شروع کرنا (أَفْرَعُ) بِفُلَانٍ:
پکڑا جانا اور قتل کیا جانا۔
فَارِغَةً: کفایت کرنا اور اگیز کرنا۔

إِفْرَاحٌ: الْبِكْرُ: بکارت زائل کرنا۔
تَفَرَّقَ: الْقَوْمَ: گالی دینا۔ فائق ہونا۔ الشَّيْءِ:
بلند ہونا۔ تَفَرَّقَتْ الْأَغْصَانُ: شنبیوں کا بہت

ہونا _____ الْمَسَائِلَ: اصول سے متفرق ہونا
_____ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ: مترتب ہونا۔ جی
ہونا۔

إِسْتَفْرَعُ: الشَّيْءِ: شروع کرنا _____
الرَّجُلِ: پہلے بچہ کو ذبح کرنا۔

الْفَرِطَاحُ: مہ۔ _____ مِنْ كَلِّ شَيْءٍ: اوپر کا
حصہ جو اصل سے نکلا ہو جیسے فَرِطَاحُ الشَّجَرَةِ:
منفعت بخش مال۔ الفَرِطَاحُ فِي الْمَسَائِلِ

الْعِلْمِيَّةِ: مسائل مستطبہ جو کسی اصل سے نکلے
ہوں۔ فَرِطَاحُ الْمَرْأَةِ: عورت کے بال فَرِطَاحُ
الْقَوْمِ: سردار رئیس۔ فَرِطَاحُ الْأَذْنِ: کان کا اوپر کا
حصہ جِ فَرِطَاحٌ: الفَرِطَاحُ: جو کسی واحد (فَرِطَاحَةٌ)

اور کہا جاتا ہے "صَرَبَهُ عَلَى فَرِطَاحِ الْيَتِيمِ"
چوڑے کے اس حصے پر جو بیٹے میں زمین پر لگتا ہے۔
الْفَرِطَاحُ: گھالی کی طرف پانی بہنے کی جگہ جِ فَرِطَاحُ:

الفرغ: اوتوٹ یا بکری کا پہلا بچہ۔ جو کس واحد (فرغۃ) تقسیم۔ کہا جاتا ہے تو اَصْوَبُ وَالْفَرْعُ یعنی تقسیم پر راضی ہو گئے۔

الفرغۃ: راستہ کی بلندی۔ پہاڑ کی چوٹی ج فرغ۔

الْفَارِعُ: نا خوبصورت۔ بلند۔ پست۔

الْفَارِعَةُ: مؤنث فَارِع۔ فَارِعَةُ الْجَبَلِ: پہاڑ کا بلند حصہ۔ ج فَوَارِع (فَارِعَةُ الظَّرِيقِ و فر عاؤۃ) راستہ کی بلندی۔

المَفْرَعُ: لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا ج مَفَارِع۔

المَفْرَعُ: ہریج کا طویل۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَفْرَعٌ الْكَتْفِ" یعنی فلاں چوڑے اور بلند موٹھے کا ہے۔

الْفُرْعَانُ: بچو کا بچہ۔ مؤنث فرعۃ ج فَوَارِعِل و فَوَارِعِلَةٌ۔

الْفُرْعَانُ: نر بچو۔

فُرْعَانٌ فُرْعَانَةٌ: الزَّجَلُ: تکبر کرنا۔ چالاک ہونا۔

تَفَرَّغَ عَنِ النَّبَاتِ: لسی اور قوی ہونا۔ فَلَانٌ عَلَيْنَا: سرکشی اور ظلم کرنا۔ فروعہ کے اخلاق کو اختیار کرنا۔

فُرْعُونٌ وَفُرْعُونٌ وَفُرْعُونٌ: مصر کے بادشاہ کا لقب۔ سرکش۔ ج فُرْعَانَةٌ۔

فُرْعَانٌ (ف ن) وَفُرْعَانٌ (س) فَوَارِعًا وَفُرْعَانًا۔

مِنَ الْعَمَلِ: کام سے خالی ہونا۔ لَهُ وَآلِيهِ: قصد کرنا۔ الزَّجَلُ فُرْعَانًا: مرنا۔ فُرْعَانٌ ذَمٌّ: رائیگاں جانا۔ مطالبہ نہ کیا جانا۔

مِنَ الشَّمْسِ: پورا کرنا۔ تمام کرنا۔ الظَّرْفُ: برتن کا خالی ہونا۔ فُرْعَانًا عَلَيْهِ السَّاءُ: گرنا۔

فُرْعَانٌ (ک) فُرْعَانَةٌ: برتیدہ ہونا۔ گھبرانا۔ فُرْعَانَةٌ الطَّعْنَةُ: وسیع ہونا۔ صفت (فریغۃ)

فُرْعَانٌ (س) فَوَارِعًا السَّاءُ: پانی کا گرنا۔ اَفْرَعٌ وَفُرْعٌ: السَّاءُ: پانی گرنا۔

الْإِنَاءُ: برتن خالی کرنا۔ الدَّمَاءُ: خون برانا۔ کہا جاتا ہے "فُرْعَانٌ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ" یعنی اللہ اس کو مبردے۔ افرغ الذہب و نحوہ:

سانچہ میں ڈھالنا۔

تَفَرَّغَ: کام سے خالی ہونا۔ الامر: کوشش کرنا۔

اِفْتَرَعَ السَّاءُ: اپنے اوپر پانی گرانا۔

اِسْتَفْرَعُ: تے کرنا۔ مَجْهُودَةٌ لِكَذَا: طاقت صرف کرنا۔

الْفُرْعُ: برتن کا کنارہ جس سے پانی گرایا جائے۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ طَعْنَةُ ذَاتِ فُرْعٍ" یہ نیزے کا زخم جوڑا ہے۔ قَطْرَةٌ زَمِينٌ ج فُرْعُ فُرْعٍ:

الْفُرْعُ: فراغت۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ ذَمُّهُ فُرْعًا" او فُرْعًا" یعنی اس کا خون رائیگاں گیا۔

الْفُرْعُ: فارغ۔

الْفُرْعَانُ: ڈول کا کنارہ جس سے پانی گرایا جائے۔ برتن۔ بڑا پیالہ۔ جانور کے ایک طرف کا بوجھ۔ چوڑا

نیزہ۔ کشادہ رفتار کا جانور ج اَفْرَعَةٌ۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ فُرْعَانٌ" یعنی تیز رفتار و وسیع اقدام مرد۔

الْفُرْعَانُ: چوڑا۔ ہموار زمین۔ کشادہ رفتار جانور ج فِرَاعٌ۔ زَجَلٌ فُرْعَانٌ: تیز زبان مرد۔ ظَرِيقٌ فُرْعَانٌ: کشادہ راستہ۔ صَّوْبَةٌ فُرْعَانٌ وَفُرْعَانَةٌ: تلوار کا کشادہ زخم جس سے خون نکلے۔

الْفُرْعَانَةُ: مؤنث فریغ۔ زیادہ پانی کا پھانگل۔

الْأَفْرَعُ: فارغ۔ مؤنث فُرْعَانَةٌ وَفُرْعَانَةٌ: تلوار کا کشادہ زخم۔

الْفُرْعَانُ: کشادہ برتن۔

ذُرْعُهُمْ (مَفْرَعٌ وَ مَفْرَعٌ) سانچہ میں ڈھلا ہوا جس پر ٹھیند نہ ہو۔

فُرْسٌ (مُسْتَفْرَعٌ) بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

الْفُرْعَانُ: نرم و چینی زمین۔

الْفُرْعَانُ: لمبے پر والا۔ گیوں کا پھلکن۔

الْفُرْعَانُ وَالْفُرْعَانَةُ: مضبوط شیر۔

فُرْعَانٌ فُرْعَانَةٌ: تیز چلنا اور قدم قریب قریب رکھنا۔

الْبَجِيعُ: بدن کو جھانڑنا۔ الزَّجَلُ هُنَّ كَلَامُهُ: غلط طر کرنا اور بڑھانا۔ الشَّمْسُ: جھانڑنا اور حرکت دینا۔ تَوْرَانٌ الدُّنْبُ الشَّاءُ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الزَّجَلُ: نسبت کرنا۔ بے عزت کرنا۔ فَلَانًا: فریاد کرنا۔ فُرْعَانُ الفُرْسِ اللِّجَامُ: سر سے علیحدہ کرنے کے لیے حرکت دینا۔

الْفُرْعَانُ وَالْفُرْعَانَةُ: چڑیا۔

الْفُرْعَانُ وَالْفُرْعَانَةُ وَالْفُرْعَانُ وَالْفُرْعَانَةُ: اپنے مقابل کو پھاڑے۔ پھیرا یا بکری یا جنگلی گائے کا بچہ۔ جوان لڑکا۔ الْفُرْعَانُ: بیوقوف۔ بہت بکواس کرنے والا۔

الْفُرْسُ: گھوڑا اپنے منہ میں لگام کو حرکت دینے والا۔

الْفُرْعَانُ: ایک درخت ہے جس سے پیالے بنائے جاتے ہیں اور جو آگ سے کم جلتا ہے۔

الْفُرْعَانُ: شیر جو اپنے مقابل کو پھاڑے۔

فُرْقٌ (ن ض) فُرْقًا وَفُرْقَانًا بَيْنَهُمَا: جدا کرنا۔

الْبَحْرُ: سمندر کو پھاڑنا۔ فُرْقًا الشَّعْرُ: بال میں ٹانگ نکالنا۔ الظَّائِرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔

فُرْقٌ (ن) فُرْقًا لَهُ الظَّرِيقِ: راستہ کا واضح ہونا۔ الامْرُ لِفُلَانٍ: روشن ہونا۔ فُرْقِيَتِ التَّائِقَةُ: اونٹنی کا ذر ذرہ والی ہونا۔ لَهُ عَنِ الشَّمْسِ: ظاہر کرنا۔

فُرْقٌ (س) فُرْقًا: منہ، گھبرانا۔ کہا جاتا ہے "فُرْقٌ خَيْرٌ مِنْ حُبٍّ" خوف محبت سے بہتر ہے۔

یعنی تم سے لوگوں کا خاکف رہنا تمہارے ساتھ محبت کرنے سے بہتر ہے۔ فُرْقٌ الزَّجَلُ: موج میں داخل ہونا۔

اَفْرَقُ: الظَّائِرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔

الظَّائِرُ: پرندہ سے بیٹ کرنا۔

الْحَرِيضُ: مِنْ مَرَضِهِ: مریض کا صحت یاب ہونا۔

عَنْمَةٌ: بکریوں کو ضائع کر دینا۔ کھور دینا۔

فُرْقٌ تَفَرَّقًا وَتَفَرَّقًا وَالْفُرْقُ وَتَفَرَّقَ: ضد ہے تَجَمُّعٌ اور اِرْتَجَاعٌ وَتَجَامُعٌ کی کہا جاتا ہے "تَفَرَّقَتْ بِهِمُ الظَّرِيقُ" یعنی ہر ایک ایک راستہ کو ہویا۔

اِنْفَرَقَ: عَنَهُمْ: جدا ہونا۔ لَهُ الظَّرِيقِ: راستہ کا واضح ہونا۔

الْفُرْقُ: مہ۔ ٹانگ۔ کتان۔

الفَرْقُ - لڑکوں کا گروہ - قسم - ہر چیز کا ٹکڑا - بکری وغیرہ کا ٹکڑا -
 الفَرْقُ - مع - گھبراہٹ - مانگ - جمع یا ابتداءً ضج
 ج اُفْرَاقٍ وَأَفْرَاقٍ - الفَرْقُ : دو دانتوں کا فاصلہ
 فِی الْخَيْلِ : گھوڑے کی ایک سرین سے
 دوسرے کی بلندی اور یہ غیر محبوب ہے -
 الفَرْقَانُ - مع - ہر وہ چیز جس سے حق و باطل
 کے درمیان فرق ہو - دلیل - مدد صبح ﴿يَوْمَ
 الْفَرْقَانِ﴾ جبکہ بدرکدان -
 وَالْفَرْقُ - توراہ - قرآن - الفَرْقُ : ناپے کا ایک
 برتن -
 الْفَرْقَةُ - لوگوں کی ایک جماعت ج فرقہ -
 الْفَرْقَةُ وَالْفَرْقُ وَالْفَارُوقُ وَالْفَرْوُوقُ
 وَالْفَرْوُوقُ - بہت گھبرانے والا - مَوْنَتْ فَرْقَةٌ
 وَفَرْقَةٌ - بَسَتْ فَرْقٌ : متفرق نباتات یا چھوٹے
 چھوٹے جو زمین کو نہ ڈھکیں -
 الْفَرْوُوقَةُ وَالْفَرْوُوقَةُ وَالْفَارُوقَةُ (مذکر و
 مؤنث) بہت گھبرانے والا - بزدل -
 الْفَرْوِيقُ - ریوڑ - فرقہ سے بڑی جماعت - فَرْوِيقُ
 الْخَيْلِ : آگے بڑھنے والا گھوڑا ج اَفْرَاقٌ
 وَأَفْرَاقٌ وَفَرْوُوقٌ -
 الْفَرْوِيقَةُ - بکریوں کا ریوڑ - ایک قسم کا کھانا جو
 زچہ کر دیا جاتا ہے -
 الْأَفْرُوقُ - مانگ والا جس کے داڑھی کے بال یا
 پیشانی کے بال میں مانگ ہو - جس کے دانت جدا
 جدا ہوں - دِيْنُكَ أَفْرُوقٌ : مرغ جس کی کلفتی شاخ
 شاخ ہو - تَبَشَّشَ أَفْرُوقٌ : میٹھا کر جس کے
 سینگوں میں ڈوری ہو - مَوْنَتْ فَرْوَاءٌ -
 الْفَارِوقُ - فا - مَوْنَتْ - فَارِوقٌ ج فَوَارِيقُ وَ
 فَارِقَاتٌ - آبر کا ٹکڑا جو بالوں سے جدا ہو - دروزہ
 میں جلاؤنی ج فَوَارِيقُ وَفَرْوُوقٌ وَفَرْوِيقٌ -
 الْفَارِوقُ : ہر وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان
 فرق کرنے والی ہو -
 الْفَارُوقُ - وہ شخص جو امور میں فیصلہ کرے -
 لقب خلیفہ دوم (پہنچ) کا - کہا جاتا ہے "ضَمٌّ"
 (فَارِوقٌ) متناہیہ - یعنی اس نے متفرق مسلمان کو
 اکٹھا کیا - "وَأَخَذَ حَقَّهُ بِالْفَارِوقِ" یعنی اس نے

اپنا حق تمہارا تمہارا کر کے لیا -
 الْمَفْرُوقُ وَالْمَفْرُوقُ : مِنَ الطَّرِيقِ : راستہ کا وہ
 حصہ جہاں سے مختلف راستے نکلیں -
 _____ مِنَ الشَّعْرِ : مانگ ج مَفْرَاقٌ - کہا جاتا ہے
 وَقَفَّهُ عَلٰی مَفْرَاقِ الْحَدِيثِ یعنی اس نے بات
 کی وجہ واضح سے واقف کیا -
 الْفَرْقَدُ - قطب شمالی کے قریب ایک روشن
 ستارہ کا نام اور اسی کے پہلو میں ایک دوسرا ہے جو
 اس سے کم روشن ہوتا ہے اور یہ دونوں فَرْقَدَانُ
 کہلاتے ہیں -
 مِنَ الْأَرْضِ : سخت ہموار میدان -
 الْفَرْقَدُ : نیل گانے کا پتہ ج فَرْقَدٌ -
 فَرْوَعٌ فَرْوَعَةٌ وَفَرْوَعَانٌ - تیز دوڑنا - گوز کرنا -
 صفت (فَرْوَاعٌ) _____ الْأَصَابِعِ : انگلیاں چمکانا
 _____ فَلَانًا : گردن مروڑنا -
 نَفْرَعٌ - انگلیوں کا چمکانا -
 إِفْرَنْعٌ - انگلیوں کا چمکانا _____ عَنَّةٌ : ڈور ہونا -
 کیسو ہونا -
 الْفَرْوَعَةُ - ڈیر -
 فَرْوَكٌ (ن) فَرْوَكًا - النَّوْبُ : کپڑے کو ملنا -
 الشَّيْءُ عَنِ النَّوْبِ : کھینچنا _____ الْجَوَزُ
 وَنَحْوُهُ : اخروٹ وغیرہ کو مل دل کر چمکانا -
 فَرْوَكَةٌ (س) فَرْوَكًا وَفَرْوَكًا وَفَرْوَكًا -
 بغض رکھنا - اور کہا گیا ہے کہ زوجین کے ساتھ
 مخصوص ہے -
 فَرْوَكْتُ (س) فَرْوَكًا - الْأُذُنُ : کان کی بڑ کا ڈھیلا
 ہونا - صفت (فَرْوَكَةٌ وَفَرْوَكَاءٌ)
 فَرْوَكَةٌ - ملنے میں مبالغہ کرنا -
 فَارَكَةٌ مَفَارَكَةٌ - چھوڑنا -
 أَفْرَكَ - السُّنْبُلُ : ملنے کے قابل ہونا -
 تَفْرَكَ - چال یا گنگو میں آگنا -
 (_____) وَأَفْرَكَ (م) مَلا جانا - کہا جاتا ہے "إِنْفَرَكَ
 مَتَكْتُ فَلَانٌ" یعنی فلاں کا موٹھا آکھ گیا -
 إِسْتَفْرَكَ - الْحَبُّ فِي السُّنْبُلَةِ : دانت کا خوش
 میں سخت اور موٹا ہونا -
 الْفَرْوَكُ - بغض - بغض زوجین -
 الْفَرْوَكُ - چمکانا - تارا ہوا - کہا جاتا ہے لَوْزُ فَرْوَكٌ -
 الْفَارِكَ - فا - إِمْرَأَةٌ فَارِكٌ : شوہر سے بغض

رکھنے والی ج فَوَارِكٌ -

الْفَرْوُوكُ - بغض رکھنے والا - شوہر سے بغض
 رکھنے والی عورت -

الْفَرْوِكُ - ملا ہوا دانت - غلہ جو ملا جائے اور کھی
 ملا کر پکایا جائے -

الْمَفْرُوكُ - مضمین الاہل : وہ اونٹ جس کے
 موٹھے کی بڑی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہو اور
 موٹھا چمک گیا ہو _____ مِنَ الْخَيْبَاتِ : بہت گھرا
 رنگا ہو کپڑا -

الْمَفْرُوكُ - مضمین - چھوڑا ہوا - مبہوض -

أَفْرَمٌ - الْإِنَاءُ - برتن کو بھرنا -

الْأَفْرَمُ - گمرے ہوئے دانت والا -

الْفَرْمَانُ - پروانہ شاہی ج فرامین -

الْفَرْوَانُ - شور - ج الْفَرْوَانُ -

الْفَرْوَانُ - شور کا مالک - روٹی پکانے والا -

الْفَارِةُ - روٹی پکانے والی -

الْفَرْوِيُّ - گول موٹی روٹی واحد (فَرْوِيَّةٌ) سخت
 بدن کا آدمی -

الْفَرْوِيْبُ - چوہا - چوہے کا پتہ -

الْفَرْوِنْدُ - انار کا دند - کھوار - جو ہر کھوار - کھوار کا
 نقش و نگار - کہا جاتا ہے "سَيَفُوقُ فَرْوِنْدٌ" بے مثل
 کھوار ج فَرْوِنْدٌ - الْفَرْوِنْدُ : ایک قسم کا کپڑا -

الْإِفْرَنْدُ - جو ہر کھوار - نقش و نگار کھوار ج
 إِفْرَنْدَاتٌ -

فَرْوَةٌ (س) فَرْوَاءٌ - خوش ہونا - آگڑنا - صفت
 (فَرْوَةٌ)

فَرْوَةٌ (ک) فَرْوَاهَةٌ وَفَرْوَهَةٌ وَفَرْوَاهِيَةٌ - ماہر ہونا -
 حاذق ہونا - خوش ہونا - سبک ہونا - صفت (فَارَةٌ)

أَفْرَةٌ - الرَّجُلُ :

چست و چالاک غلام لینا -

إِسْتَفْرَةَ الدَّوَابِّ : عمدہ جانور چھانٹنا -

الْفَارَةُ - چالاک - خوب کھانے والا - کہا جاتا ہے
 "رَجُلٌ فَارَةٌ وَجَارِيَةٌ فَارَةٌ" ج فَرْوَةٌ وَفَرْوَةٌ
 وَفَرْوَةٌ وَفَرْوَةٌ وَفَرْوَةٌ -

الْفَارِةُ - مَوْنَتْ فَارَةٌ - خوبصورت جوان لڑکی
 ج فَوَارَةٌ وَفَرْوَةٌ -

الْأَفْرَةُ - چالاک -

فَرْهَدٌ - چھوڑنا - فَرْهَدَتْ نَفْسُهُ : تنگ ہونا -

تَفْرُؤَهُ الْعَلَامُ: لڑکے کا موٹا ہونا۔

الْفَرْؤُهُو الْفَرْؤُهُو الْفَرْؤُهُو مَوْتًا تَازَةً لِرَاكِ الْفَرْؤُهُو: بکری یا پہاڑی بکری کا پختہ ج فز اہیند۔

فُرِي تَفْرِئَةُ الْحَبَّةِ: جب پر پوستین لگانا۔

الْفَرِي: الْفَرْؤُ: پوستین پھینا۔

الْفَرْؤَةُ: مع بالوں کے سر کی کھال۔ عورت کا سر ہند۔ تاج۔ تو گھری۔ مادراری۔ کہا جاتا ہے "صَوْنَهُ عَلَيَّ أُمُّ فَرْؤِيَّة" اس کی چندیا پر مارا۔ ساکل کا تھیلہ۔ اونٹ کا بالوں کا کھیل۔

الْفَرْؤُ: پوستین جو بعض حیوانات کی کھال سے تیار کیا جاتا ہے۔ ج فز اہ۔

الْفَرْؤَاءُ: پوستین کا ہانڈا والا۔

فَرْؤُزٌ فَرْؤُزَةٌ: مرنا۔

فُرِي يَفْرِي فُرِيًا: عَلَيْهِ الْكُذِبُ: کسی پر جھوٹ یا دھما۔ الْأَرْضُ: زمین میں چلنا۔

الْمَرْؤَةُ: توشہ دان بنانا۔ الْبَرْؤِيُّ: بجلی چمکانا۔

فُرِي وَفُرِي: الشَّى: کانا اور پھاڑنا۔

فُرِي يَفْرِي فُرِيًا: دہوش ہونا۔ تمہیر ہونا۔

أَفْرِي: الشَّى: کانا اور پھاڑنا۔ درست کرنا۔ فَلَانًا: بلاست کرنا۔

تَفْرِي تَفْرِئًا وَتَفْرِئًا: الْفَرْؤَاءُ: پھینا۔ کہا جاتا ہے "تَفْرِي الْأَرْضُ بِالْعَيْنِ" زمین میں چشمہ چھوٹ پڑے۔

الْفَرِي: الْفَرْؤَةُ: عَلَيْهِ الْكُذِبُ: کسی پر جھوٹ لگانا یا جھوٹ یا دھما۔

الْفَرْؤَةُ: فُرِي: کاسم مرہ۔ شور۔

الْفَرْؤَةُ: جھوٹ۔ تمسٹ ج فز۔ الْفَرِي:۔

پھنا ہوا۔ گھڑی ہوئی بات۔ عجیب۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَفْرِي الْفَرِي" فلاں تعجب انگیز کام کرتا ہے اور اسی سے قرآن میں ہے "لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا" یعنی تم نے ایسا کام کیا جس سے حیرت و تعجب ہے۔ مَوْنَةُ فَرْؤِيَّةُ: اور کہتے ہیں "الْفَرْؤِيَّةُ الْفَرْؤِيَّةُ" یعنی جلدی جلدی۔ الْفَرْؤِيَّةُ الْفَرْؤِيَّةُ: کشادہ ڈول۔ الْفَرْؤُ: تعجب۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْفَرِي" الْفَرِي: یعنی جھوٹوں کا جھوٹ۔

فَزَانٌ (فَزَانٌ) فَزَا: اکیلا ہونا۔ عَنَّةٌ: جدا ہونا۔

الطَّبِي: ہرن کا گھبرانا۔ هُ: دو موکا رینا اور غالب آنا۔ هُوش أَرَا دَنَا: ه عَن مَسْكَانِهِ: گھبرانا اور جگہ سے ہٹانا۔

فَزَا (فَزَا) فَزَا: السُّجُوحُ: زخم سے خون پھینپ وغیرہ جاری ہونا۔

فَزَاةٌ وَفَزَاةٌ: مضطرب ہونا اور بھڑک اٹھنا۔ أَفْرَةٌ: گھبرانا۔

الْفَرُّ: عَلَيْهِ: غالب ہونا۔

تَفَارٌ: الْزُجْلَانُ: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔

الْمُسْتَفْرَةُ: ہلکا جانا۔ زِلُّلٌ: سمٹنا۔ مضطرب کرنا۔ گھر سے نکال دینا۔ قتل کرنا۔ مِنَ الشَّى: نکالنا۔

الْفَرْ: مہ۔ ہلکا پھلکا آدمی۔ نکل گئے کا پختہ ج اَفْرَاؤُ۔

الْفَرْؤَةُ: خوف و دہشت کی جھلانگ۔ کہا جاتا ہے قَعْدَةٌ مُسْتَفْرَةٌ: یعنی غیر مطمئن بیٹھنا۔

فَرْؤَةٌ (ان) فَرْؤًا: پھاڑنا۔ نَحْرًا: توڑنا۔ هُ بِالْعَصَا: لاٹھی سے پیٹھ پر مارنا۔ الشَّى: مِنَ الشَّى: ایک چیز کو ایک چیز سے جدا کرنا۔

فَزَانٌ (ان) فَزَاؤًا: پھینا۔ فَرْؤُ (س) فَرْؤًا: پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ پڑ جانا۔

صَفْتُ (أَفْرَانٌ)

فَزَاؤُ وَأَفْرَانٌ: الشَّى: ریزہ ریزہ کرنا۔

تَفْرُؤُ وَالْفَرْؤُ: پھینا۔ الْفَرْؤُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

الْفَرْؤُ: بکریوں کا چھوٹا سا بوز۔ اور کہا گیا ہے کہ دس اور چالیس بکریوں کے درمیان بکری کا پختہ۔ شیر بھر کا پختہ۔ جڑ۔ عدد جو ران کے اوپر کے حصے میں نکلے۔

الْفَرْؤُ: پھین۔ شگاف: گویا کہ یہ فَرْؤَةٌ کی جمع ہے۔

الْفَرْؤُ: پھین۔ شگاف۔

الْفَرْؤَةُ: پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ۔ کشادہ راست۔ ج فُزُرُ۔

الْفَاؤُرُ: فَا: کالی چوٹی جس میں سرخی ہو۔ کشادہ طویل راست۔

الْفَاؤُرُ: مَوْنَةُ الْفَاؤُرُ: ریگستان کا راستہ۔ الْفَرْؤَاءُ: مَوْنَةُ الْفَرْؤُ: پز گوشت عورت۔ قَرَبُ الْبُلُوغِ لَرِي: الْفَرْؤَاءَةُ: پختا کی مادہ۔ الْمَفْرُؤُورُ: مہ۔ کبڑا۔ پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ والا۔ فَرْعٌ (ف) فَرْعًا وَفَرْعًا: مَنَّهُ: خوف کرنا۔ فَرْعٌ (س) فَرْعًا: دہشت زدہ ہونا۔ خائف ہونا۔ إِلَيْهِ: فریاد چاہنا۔ پناہ لینا۔ الْزُجْلُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔

مِنْ نُوْمِهِ: بیدار ہونا۔ (فَرْعًا) لِيَصْحَبِي فَلَانٌ: کسی کے آنے کی وجہ سے تیار کرنا۔ أَفْرَعَةٌ: خوف دلانا۔ الْفَرْؤُورُ: فریاد رسی کرنا۔ هُ مِنَ الْقَوْمِ: بیدار کرنا۔ الْفَرْعُ عَنْهُ: گھبراہٹ زائل کرنا۔ فَرْعُهُ: خوف دلانا۔ فَرْعٌ عَنَّهُ: گھبراہٹ دور کرنا۔ الْفَرْعُ: مہ۔ گھبراہٹ۔ فریاد رسی۔ الْفَرْعَةُ: وہ شخص جس سے لوگ گھبرائیں۔ الْفَرْعَةُ: لوگوں سے ہمت گھبرانے والا۔ الْفَارِعُ: خائف۔ فریاد رسی۔ الْفَرْعَةُ: ہمت گھبرانے والا۔ وہ شخص جو لوگوں کو ہمت گھبرادے۔ اُجْرًا (لَحْمًا) كَا: الْمَفْرُوعُ وَالْمَفْرُوعَةُ: جائے پناہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَفْرُوعٌ أَوْ مَفْرُوعَةٌ لِلنَّاسِ" فلاں لوگوں کیلئے جائے پناہ ہے یعنی جب ان کو اہم معاملہ پیش آتا ہے تو اس کی پناہ لیتے ہیں۔ دونوں میں واحد جمع مذکر و مؤنث کے لیے مستعمل ہیں۔ الْمَفْرُوعُ: بزدل۔ بہادر۔ فَسَاءُ (ف) فَسَاءً: لاٹھی سے مارنا۔ هُ عَنْ مَسْئَدًا: روکنا۔ (س) فَسَاءً: تفسیٹا و تفسیٹا الْفَرْؤُ: کپڑا پھاڑنا۔ فَسِيئٌ (س) فَسَاءً: اُبھرے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پیٹھ والا ہونا۔ اُبھرے ہوئے پیڑ والا ہونا۔ صَفْتُ (الْفَسَاءُ) مَوْنَةُ فَسَاءً: فَسَاءً: لاٹھی سے مارنا۔ تَفْسَاءُ الْفَرْؤُ: کپڑے کا پھینا۔ بوسیدہ ہونا۔ الْمَرْؤُصُ فِيهِمْ: تیاری پھیل جانا۔

کی تعمیر کی جاتی ہے جیسے ”نَادَيْتُكَ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا“

التَّفْسِيرَةُ - مہ - مریض کا پیشاب - ہر چیز جس سے دوسرے پر استدلال کریں۔

الْفَسَاطُ وَالْفُسْطَاطُ وَالْفُسْطَاطُ - خیمہ۔
أُونُ كَا خِيمَةٍ جَ فُسَاطِيْطٌ وَالْفُسْطَاطُ بِالضَّمِّ: مَصْرُومٌ كَالْعِلْمِ هُوَ - ایک لغت اس میں فُسْتَاتٌ وَفُسْتَاتٌ بھی ہے۔

الْفَيْسِطُ - ناخن کا تراش دہ (فَيْسِطَةُ) الْفُسْطَانُ - دیکھئے فُسْتَانُ۔

الْفُسْفُسُ وَالْفُسْفُاسُ - بیوقوف - ایک بد بودار نباتات جَ فُسْفَاسٌ وَفُسْفَاسِيْسٌ۔

الْفُسْفَاسُ - چمچر۔
الْفُسْفِيسَاءُ - سنجے کاری۔ رنگ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں کو جو ذکر مختلف اشکال و صورتیں ہوتا۔

فَسَقٌ (ن ض) وَفَسَقٌ (ك) فِسْقًا وَفُسُوْقًا - حق و صلاح کے راستے سے ہٹ جانا۔ بدکار ہونا۔
صَفَتْ (فَاصِقٌ) جَ فَسَقَةٌ وَفَسَاقٌ وَفَاصِقُونَ مَوْتٌ فَاصِقَةٌ جَ فَاصِقَاتٌ وَفَوَاصِقٌ () وَانْفَسَقَ الزُّوْلَمُ عَنِ قَشْرِهِ: چمکے سے علیحدہ ہونا۔

فَسَقَةٌ - فسق کی طرف نسبت کرنا۔
الْفِسْقِيَّةُ - حوض - وضو کرنے کی جگہ جَ فَسَاقِيٌّ (دخیل)

الْفَسَقُ وَالْفَسَاقُ وَالْفَيْسِقِيُّ: بڑا بدکار۔ اور کہا جاتا ہے ”يَا فَسَقُ“ یعنی أَيُّهَا الْفَاصِقُ اور یہ ندا ہی کے لیے مخصوص ہے جیسے یا خُبْرُتُ۔

الْفَاصِقِيَّةُ - گیزی باندھنے کا ایک مخصوص طریقہ۔ کہا جاتا ہے ”تَمَعَّمَ فَلَانٌ الْفَاصِقِيَّةُ“ فَسَاقِيٌّ - بروزن نظام عورت کیلئے گالی ہے اور ندا ہی کی صورت میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے ”يَا فَسَاقِيٌّ“ بمعنی ”يَا فَاصِقَةٌ“

الْفَوَيْسِقَةُ - فاسق کی تعمیر ہے۔
فَسْكَلٌ فَسْكَلَةٌ - دیر کرنا۔ بچھے رہنا۔ بیرو ہونا۔ فَسْكَلَةٌ فَلَانٌ - بیرو ہونا۔

الْفَسْكَلُ وَالْفَسْكَوْلُ - گھوڑ دوڑ کا آخری گھوڑا زَجَلٌ فَسْكَوْلٌ - مرد کینہہ - کال۔

فَاسْتَحَهُ الْعَقْدَاوُ الْبَيْعِ وَ (تَفَاسَخَا) الْعَقْدُ او الْبَيْعُ: عَقْدٌ يَبِيْعُ كَيْ تَوَزَّعَ بِرَشَقٍ هُوَ - کہا جاتا ہے ”تَفَاسَخَتِ الْأَقَاوِيلُ“: یعنی اقوال متناقض ہو گئے۔

أَفْسَخَ - الْكِتَابَ: بھولنا۔

تَفَسَّخَ - كَلَّمَهُ كَلَمَةً هُوَ الشَّعْرُ عَنِ الْجِلْدِ: بال کا کھال سے بھڑ جانا (اور یہ میت کے لیے خاص ہے)

إِنْفَسَخَ الْعَزْمُ او الْعَقْدُ: ٹوٹنا۔

الْفَسْخَةُ: نَحْ كَالْمَرَّةِ - کھانا۔ کہا جاتا ہے ”زَجَلٌ فَسْخَةٌ“ یعنی کزور بدن یا ضعیف العقل مرد۔

الْفَسْخُ وَالْفَيْسِخُ - وہ شخص جو اپنی حاجات میں کامیاب نہ ہو اور اپنے امور کا انتظام نہ کر سکے۔ کزور بدن یا عقل والا۔ کزور جس کا ارادہ خفی یا مصیبت کے وقت ٹوٹ جائے۔

فَسَدٌ (ن ض) وَفَسَدٌ (ك) فَسَادًا وَفُسُوْدًا - خراب ہونا۔ بگڑ جانا۔ صفت (فَسِيْدٌ) جَ فَسْدِيٌّ وَ (فَاسِيْدٌ)

أَفْسَدُهُ وَفَسَدَةٌ - خراب کرنا۔ بگاڑنا۔

فَاسِدٌ - الْقَوْمُ: قوم کے ساتھ بد سلوکی کرنا۔ تَفَاسَدَ الْقَوْمُ: قطع رحمی کرنا۔ آپس میں مخالف ہونا۔

إِسْتَفْسَدَ - جَای چاہنا۔ الْقَوْمُ: بد سلوکی کرنا۔

الْفَسَادُ - مہ - کھیل کود۔ ظلم مال لینا۔
الْمَفْسَدَةُ - مصدر فساد یا سبب فساد جَ مَفْاسِدٌ۔
فَسْرٌ (ن ض) فَسْرًا - الْأَمْرُ: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا۔ الْمُعْطَى: اُٹکے ہوئے کو کھول دینا۔

فَسْرٌ (ن ض) فَسْرًا وَ تَفْسِيرَةٌ - الطَّبِيْبُ طَيِّبٌ كَا قَارُوْرُهُ كَمَا -

فَسْرَةٌ - واضح کرنا۔ ظاہر کرنا۔

تَفَسَّرَ وَ اسْتَفْسَرَ - فَلَانًا عَنِ الْأَمْرِ وَ اسْتَفْسَرَ فَلَانًا: واضح کرنے کو کہنا۔

التَّفْسِيْرُ - مہ - کابل - کشف - وضاحت - بیان - شرح - جَ تَفْسِيْرٌ - و حرفا التفسیر - آئے اور ان ہیں اے سے مہم کی تعمیر کی جاتی ہے جیسے ”هَذَا عَسَجَدٌ أَيْ ذَهَبٌ“ اور ان سے معنی قول

تَفَاسًا تَفَاسًا - الزَّجَلُ: پیشہ اور چوڑکو ظاہر کرنا۔

الْفُسْتُقُ وَالْفُسْتُقُ - پستہ۔
الْفُسْتُقِيُّ - پستی رنگ کا۔

الْفُسْتَانُ - عورتوں کا ایک لباس بمنزلہ قبائے کن فستائین۔

فَسَخٌ - پیشاب کرنے کیلئے نالگیں پھیلانا۔

أَفْسَخَ - عَنْهُ: چھوڑنا۔

فَسَخٌ (ف) فَسَخًا - کشادہ قدم رکھنا۔

لَهُ فِي السَّفَرِ: بِرِوَايَةِ رَاهِدٍ رَدِيًّا -

() فَسَخًا وَفُسُوْحًا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ: کشادگی کرنا۔

فَسَخٌ (ك) فَسَاحَةٌ: الْمَكَانُ: وسیع ہونا۔ صفت (فَيْسِخٌ وَفَسَاحٌ وَفَسْخٌ وَفَسْخُمٌ) مبالغہ کے لیے ہم کی زیادتی کے ساتھ۔

أَفْسَخَ الْمَكَانُ: وسیع ہونا۔

تَفَسَّخَ - كَشَادَهُ هُوَ لَهُ: کشادگی کرنا۔

تَفَسَّخُوا فِي الْمَجَالِسِ وَ (تَفَاسَخُوا) کشادگی کرو۔

فَسَخٌ - الْمَكَانُ: کشادہ کرنا۔ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ: کشادگی کرنا۔

إِنْفَسَخَ - الْمَكَانُ: کشادہ کرنا۔

صَدْرُهُ: کشادہ دل ہونا۔

الْفَسْخُ - مہ - بِرِوَايَةِ رَاهِدٍ رَدِيًّا -

الْفَسْخَةُ - مَجْبَاشٌ - مکالوں کے درمیان

کشاکی جَ فَسْخٌ۔

الْفَيْسِخِيُّ - قدم کی چوڑائی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ يَمِيْسِي الْفَيْسِخِيَّ“ وہ کشادہ کشادہ قدم رکھ کر چلتا ہے۔

فَسَخٌ (ف) فَسَخًا - جَالٍ هُوَ - ضَعِيْفٌ الْعَقْلُ هُوَ _____ زَايٌ فَلَانٌ: فاسد کرنا۔ بگاڑ دینا۔

الْأُمْرُ او الْعَقْدُ: تَوَزَّعًا _____ الشَّيْءُ:

جدا جدا کرنا۔ الْفُوْدَاوُ الْمَفْصَلُ: کھڑکی یا جوڑو جگہ سے ہٹا دینا۔ النَّوْبُ عَنْهُ: کپڑے کو اتار دینا۔

فَسَخٌ (ف) فَسَخًا وَ فَيْسِخٌ (س) فَسَخًا

الزَّوْجِيُّ: خراب ہونا۔

فَسْخَةٌ - نَحْ فِي مَبَالِغِهِ كَمَا -

فسل

فشح + فشع

فشع

فَسَل (س) و فَسَل (ك) فَسَالَةٌ وَفَسُولَةٌ وَ
فَسِيلٌ. فرومایہ ہونا کمینہ ہونا بے مروت ہونا۔

فَسَل (ن) فَسَلًا. الضَّيِّقُ: سچے کا دودھ
چھڑانا۔

أَفْسَلُ الْفَسِيلَةُ: کھجور کے پودے کو اکیڑ کر
دوسری جگہ لگانا۔ قلم لگانا۔ (أَفْسَلُ وَفَسَلُ)
ذَرَاهِمًا وَمَتَاعَةً کھونا کرنا۔

إِفْسَلُ الْفَسِيلَةُ: کھجور کے پودے کو اکیڑ کر
دوسری جگہ لگانا۔

الْفَسَالَةُ مِنَ الْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ: لوہے کے
ذرات جو کٹے وقت گریں۔

الْفَسَلُ: مہ۔ انور کا قلم۔ کمینہ۔ بے مروت
ہرودی چیز افسل وفسول وفسال وفسل
وفسولة وفسلاء وافسال کما جاتا ہے
”وَرَاهِمَ فَسَلٌ وَذَرَاهِمَ فُسُولٌ“ الْفَسَلُ:
بیوقوف۔

الْفَسِيلَةُ: کھجور کا پودہ جو ایک جگہ سے اکیڑ کر
دوسری جگہ لگایا جائے۔ درخت کا قلم۔

بِجَلْسِنٍ وَفَسَائِلِ بَيْحِ فُسْلَانٍ:
الْفُسُولَةُ: مہ۔ فتور۔

الْمَفْسُولُ: روزیل۔ بے مروت۔
فَسَا يُفَسِّئُ فُسُوًا وَفَسَاءً: بلا آواز کے گوز
کرنا۔

فَسَايَ: گوز کرنے کے لیے چوڑا ٹھکانا۔
الْفَسَاءُ: مہ۔ بلا آواز کے گوز۔ پھسکی۔

الْفَسْوَةُ: ایک مرتبہ کی پھسکی ج فسوات۔
فَسَوَاتُ الضَّبَاعِ: سانپ کی چھتری۔

الْفَاسِيَةُ وَالْفَاسِيَاءُ: گہریلا۔ ج فواس۔
الْفَسْوُ وَالْفَسَاءُ: بہت گوز کرنے والا۔

الْمَفْسِيُّ: ڈیر۔
فَسَّ (ن) فَسًّا: ڈکار لینا۔ آہستہ آہستہ چھو ٹکنا

الْوَطْبُ: سر بند کھول کر ہوا نکال دینا۔
کھن ٹکانا۔ التاقفة: اونٹنی کی جلدی سے

دوہنا۔ الباب: دروازہ کو حیلہ سے بغیر
کھجی کے کھولنا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ: چغل خوری

کرنا۔
فَسَّ: البِقَاءُ: ہوا نکال دینا۔
إِنْفَسَّ: العُجُوحُ: زخم کی سوجن ڈھل جانا

اللَّبِينُ: دودھ جاری ہونا۔ الرَّجُلُ
عَنِ الْأَمْرِ: کابل ہونا۔ اِنْفَسَّتِ الرِّيحُ: دبانے

سے ہوا کا ٹک وغیرہ سے ٹکنا۔ عِلَّةُ فُلَانٍ:
بیماری کا زائل ہونا۔

الْفَشُّ: مہ۔ () وَالْفَشُّوشُ: بیوقوف۔
کمزور رائے والا۔ باطل پر فخر کرنے والا۔ موتا

کبل۔ درخت خروب۔ پانی رسنے کی جگہیں۔
الْفَشُوشُ: پانی ٹپکنے والی ٹنگ۔

الْفَشَّاشُ: سینہ مبالغہ۔
الْفَشِيشُ: آواز اور اسی سے ہے ”فَشِيشُ

الْأَفْعَى“ سانپ کے کھال کی آواز طے میں،
الْفَاشُوشُ: ضعیف رائے اور کمزور ارادہ والا۔

رَجُلٌ ”مُنْفَشٌ“ الْمُنْحَرِيضُ: چھوٹے ہاتھ
کے ساتھ پھولے ہوئے تھنوں والا۔

فَسَأَ (ف) فَسَأًا: ناز کرنا۔
أَفْسَأًا: بزرگی جتانہ۔ گروں کشی کرنا۔

تَفَسَّأَ: الْمَرَضُ بِالْقَوْمِ: قوم میں بیماری پھیل
جانا۔

فَشَّحَ (ض) فَشْحًا وَفَشَّحَ وَتَفَشَّحَ
وَإِنْفَشَّحَ: الرَّجُلُ أَوْ الْبَيْتُ: مرویا اونٹ کا

پیشاب کرنے کیلئے ٹانگیں پھیلانا۔
فَشَّحَ (ف) فَشْحًا: قدم دور رکھنا۔

عَنَهُ: باز رہنا۔
فَشَّحَ: قدم دور رکھنا۔ باز رہنا۔ زور گر دانی کرنا۔

تَفَشَّحَتِ: التاقفة: چلنے میں پاؤں کا کشادہ
رکھنا۔ تَفَشَّحَ: پیشاب کرنا۔ لڑکی سے جماع کرنا۔

فَشَّاحٌ: بروزن قطام۔ بچو۔
فَشَّحَهُ (ف) فَشْحًا: ظلم کرنا۔ بچوں کے کھیل

میں طمانچہ مارنا۔ فَشَّحَ فِي اللَّعِبِ: کھیل کود میں
جھوٹ بولنا اور ظلم کرنا۔

فَشَّحَ: الرَّجُلُ: جوڑوں کو ڈھیلا کرنا۔
إِنْفَشَّطَ: الْغُودُ: تڑکڑی کا ٹکڑا جانا۔

فَشَّعَتِ (ف) فَشْعًا: الذَّرَّةُ: پھینکے اطراف
کا سوکھنا۔

فَشَّعَةٌ (ف) فَشْعًا: بلند ہو کر ڈھانپ لینا۔
هُ بِالسُّوْطِ: کوڑے سے مارنا۔ صفت

(فَاشِعٌ) مَوْتٌ فَاشِعَةٌ: الشَّيْءُ: وسیع
ہونا۔ منتشر ہونا۔

أَفْشَعَةٌ بِالسُّوْطِ: کوڑے سے مارنا۔
فَشَّعَ: بِمَعْنَى فَشَّعَ: هَذَا النَّوْمُ: تیز غلاب

آنا۔
تَفَشَّعَ: الشَّيْبُ فِيهِ وَتَفَشَّعَهُ: بڑھاپا ظاہر

ہونا۔ البیوت: گھروں میں داخل ہونا۔
الرَّجُلُ: موٹے کھروسے کپڑے پہننا۔

تَفَشَّعَتِ الْغَزَّةُ: پیشانی کی سفیدی کا پھیل کر
آکھ کو گھیر لینا۔

إِنْفَشَّعَ: الشَّيْءُ: کشادہ ہونا۔ بہت ہونا۔ ظاہر
ہونا۔

الْفَشَّعَةُ: اِسْمُ مَرَةٍ: عشق بیجان۔ زکھل گاگودا۔
نَاصِبَةٌ (فَاشِعَةٌ وَفَشَّاعٌ): پیشانی کے پھلے

ہوئے بال جو آکھ کو ڈھانپ لیں۔
الْفَشَّاعُ وَالْفَشَّاعُ: آکھ تل۔

الْفَشَّاعُ: کابل۔
الْأَفْشَعُ: مینہ جاس کی بیگیں دائیں بائیں

نکل گئی ہوں۔ رَجُلٌ أَفْشَعُ الْأَسْتَانَ: مرد جس
کے دانت پر آگندہ ہوں۔ مَوْتٌ فَشَّاعٌ: ج

فَشَّعٌ:
الْمَفْشَعُ: جو اپنے ساتھی کا برائی سے مقابلہ

کرتے۔
الْمَفْشَعُ: بے خبر بے فیض۔

فَشَّشَ: کمزور رائے والا ہونا۔ خوب جھوٹ
بولنا۔ غمیری چیز کو اپنی طرف نسبت کرنا۔ صفت

(فَشَّشَاشٌ)۔ بِنُوْلِهِ: پیشاب کرنا۔
الْفَشَّاشُ: مِنَ التُّوقِ: اونٹنی کہ جس کا

دودھ دوہنے کے وقت پر آگندہ نکلتے۔
الْفَشَّاشَةُ: نرم چیز۔ کما جاتا ہے ”تَخْرُجُ

الرَّيْدَةُ فَشَّاشَةً“ کھن نرم نکلتا ہے۔
فَشِّقٌ (س) فَشْقًا: آدمی کو چھوڑ کر ساری کو

دوڑنا۔ آدمی رہے نہ ساری پانا۔ هُ:
اچانک آنا۔ الطَّيْنِيُّ: ہرن کا ڈور ڈور

سیکوں والا ہونا۔ صفت (أَفْشَقٌ) مَوْتٌ
فَشَّاعٌ۔

فَشَّقٌ (ض) فَشْقًا: الشَّيْءُ: توڑنا۔
فَاشِقَةٌ: اچانک آنا۔

تَفَشَّقُ: بِنُوْلِهِ: کپڑے کو بدمی جیسا بنانا۔
الْفَشَّقُ: مہ۔ دوڑ بھاگ۔ چستی۔

فُصْحَاءُ وَفُصْحَاءُ - مَوْتٌ فَصِيحَةٌ نَ فُصْحٌ وَفُصَائِحٌ وَفُصِيحَاتٌ

الفصح - عند التصاری: البئر - فصح
اليهود: يهودیوں کے مصر سے نکلنے کی یادگار میں
عید - کہا جاتا ہے "يَوْمَ فُصْحٍ" بے بادل کا دن
المفصح - واضح - يَوْمَ مَفْصِحٍ: بے بادل کا
دن -

فُصْحٌ (ف) فَصْحًا - عَنِ الْأَمْرِ: جان بوجھ کر
غفلت کرنا - الْفُؤَادُ وَالْمَفْصَلُ: گلڑی یا
جوڑو کو کھینچنا -

فُصْحٌ - فَلَانٌ: خرید و فروخت میں نقصان
اُشَاءُ -

الفصیح والفصیحَة والفاصحة - کمزور
عقل - تا مبالغہ کے لیے ہے -

فُصْدٌ (ض) فَصْدًا وَفَصَادًا - الْمَرِيضُ:
رگ کھولنا - لَدَعَطَاءً: جاگیر دینا -

(و) وَافْتَصَدَ رِغْمًا كَهَوْلًا -

فُصْدَ الشَّيْءُ: تھوڑے سے پانی میں بھلونا -
أَفْصَدَتِ الشَّجَرَةَ: درخت کے کوئلے
نکلا -

تَفْصَدُ الدَّمُ: خون بہنا - کہا جاتا ہے "جَاءَ
يَنْفُصِدُ عِرْقًا" آیا اس حال میں کہ پینہ بہ رہا
تھا -

أَفْصَدَتِ الشَّجَرَةَ: درخت کے کوئلے
نکلا - أُنْفَصِدُ الدَّمُ: خون بہنا -

الْفُصْدَةُ وَالْفُصَيْدَةُ: بھور خون کے ساتھ
تخلو کیا ہوا -

الْفُصَيْدَةُ: نشتر لگایا ہوا - آنت اور خون ملا کر
بھوتا ہوا -

المفصّد - نشتر -

الفصّور - جست گردھا -

الفصیط - ناخن کا تراشہ -

فُصْحٌ (ف) فَصْحًا - التَّمَوُّةُ: دو انگلیوں سے
دیا کر چمکا علیحدہ کرنا - عَمَامَتُهُ عَنْ
رَأْسِهِ: سر سے عمامہ اتارنا - الشَّيْءُ: نرم
کرنے کے لیے انگلیوں سے ملنا (و) -

فُصْحٌ لَدَ بَكَدًا: دینا - فُصْحَ الشَّيْءِ مِنْ كَذَا:
نکالنا - وَفُصْحَ الرُّطْبَةَ: دو انگلیوں سے مل کر

آہستہ آہستہ رونا - الْخُنْذُبُ: بُدِي كَأَوَازٍ
نکالنا -

فُصَّصَ - الْحَاثِمُ: انگوٹھی پر گھینے لگانا - بَعِيْنِهِ:
گھورنا -

أَفْصَى - إِلَيْهِ شَيْئًا: مِنْ حَقِيْقَةٍ: حق کا کچھ حصہ
دینا -

أَنْفَصَ - مِنْهُ: جدا ہونا -

الْفُصْ - تَلِيْثُ الْفَاءِ: گھینے (فجر کا علی ہے)
الْفُصُّ آتَمُ كِي سَائِي - بسن کا خواہ -

اصل امر و حقیقت - امر - دو ہڈیوں کے ملنے کی جگہ -
فُصُّ الْمَاءِ: بلبج فُصُوْصٌ وَفُصَاصٌ
وَأَفْصَى -

الْفُصَاصُ - گھینے لگانے والا -

الْفُصَيْصُ - صاف تھمھی گویا روغن مل ہوئی -

فُصْحٌ (ف) فَصْحًا - الضَّبْحُ فَلَانًا: صُحٌّ ظَاهِرٌ
ہوتا -

فُصْحٌ (ك) فَصْحَةً - نَسِجٌ هُوَ - خُوش بِيَانٍ
ہوتا - صفت (فصیح) - الْأَعْجَمِيُّ: عربی

زبان میں گفتگو کرنا - اللَّيْنُ: دودھ سے
جھاگ آتا لینا - صفت (فصح و فصیح)

فُصْحَ اللَّيْنُ: بے جھاگ ہونا -

أَفْصَحَ - نَصَاحَتٌ سَ بُولَانٍ - نَصِجٌ هُوَ - مِرَادُ كُو
ظاہر کرنا - عَنْ كَذَا: خلاصہ کرنا -

عَنِ الشَّيْءِ: ظاہر کرنا بیان کرنا -
مِنْ كَذَا: نکل جانا رہائی پانا - الْإِمْرُ: واضح
ہوتا -

اللَّيْنُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا -
الضَّبْحُ: صبح کی روشنی پھیلنا - الْفَرَسُ:
گھوڑے کا صاف ہونانا - الْجَوْلُ: چیشاب

صاف رنگ کا ہونا - أَفْصَحَ التَّصَارِي أَوْ
الْيَهُودُ: البئر کی عید ماننا - البئر کی عید کا زمانہ آتا -

تَفْصُحٌ: زبان آور ہونا - اچھا خوش بیان ہونا -
وَتَفْصَاحٌ: تکلف ہونا -

الْفَصَاخَةُ - مہ - بیاں - کلام کا تمہید سے خالی
ہونا اور یہ حکم کلام کلمہ تینوں کی صفت واقع ہوتی
ہے - کہا جاتا ہے زَجَلٌ فَصِيحٌ - كَلَامٌ فَصِيحٌ
كَلِمَةٌ فَصِيحَةٌ -

الْفَصِيحُ - صَاحِبُ نَصَاحَتٍ - جَ فُصْحٌ وَ

الْفَشْكُ - كَارْتُوسٌ - وَاحِدٌ (فَشْكَةٌ) دَخِلَ -
فَيْشَلُ (س) فَشَلًا - كَمَزُورٍ يَزِدُ لَهَا -

صفت (فَشَلٌ وَفَيْشَلٌ وَفَشِيْلٌ) جَ فُشْلٌ
وَأَفْشَالٌ -

فُشَلٌ (ن ض) فَشَلًا - لِيَحِيْتَهُ: دائری
پھینکانا -

فُشَلْتُ وَتَفَشَلْتُ وَافْتَشَلْتُ - الْمَرْأَةُ:
عورت کا پاکی کا پردہ بنانا - تَفَشَلُ الْمَاءُ: پانی بہنا
الرَّجُلُ مِنْهُمْ أَمْرًا: نکاح کرنا -

الفشل - پاکی کا پردہ - ہودج کا پردہ - ہودھ کے
اندر بچانے کی چیز - جَ فُشُوْلٌ -

المفشل - ہودھ کا پردہ - ہودھ کے اندر بچانے
کی چیز - جَ مَفَاشِلٌ - الْمَفْشَلُ: وہ شخص جو غیر
قوم میں شادی کرے تاکہ اولاد لاغرتہ ہو -

الْفَشِيْلُ - مہ - تھن میں بقیہ دودھ - جَ
تَفَاشِيْلٌ -

فَشَا يَفْشُو فَشُوًا وَفَشُوًا وَفَشِيًا خَبِيْرَةٌ أَوْ
فُضْلَةٌ أَوْ سِرٌّ: خیرا فضیلت یا بھید ظاہر ہونا -

بجیل جانا - فَشَتِ الْمَاشِيَةَ: چراگاہ میں جانا
- أَمُوْرُهُمْ: امور کا متفرق ہونا - کہا جاتا ہے

"فَشَتَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ" اس کی جائیداد کا انتظام
نہ کر گیا - بھج میں نہیں آتا کہ کس کو سنبھالے -

أَفْشَى أَفْشَاءَ الشَّيْءِ: پھیلانا - سِرٌّ لِفُلَانٍ -
ظاہر کرنا - الرَّجُلُ: بہت جاووروں والا
ہوتا -

تَفَشَّى تَفَشِيًا - الْمَرِيضُ الْقَوْمُ وَبِهِمْ:
بیماری پھیلانا - تَفَشَّتِ الْقَرْحَةُ: زخم کا چوڑا ہونا -

الْفَشَاءُ: مویشیوں کی پیداوار اور زیادتی -
الْفَشِيَانُ: غشی -

الْفَشْوَةُ: عورت کی خوشبو کی ڈبیا -
الْفَاشِيَةُ - نَا - مَوْتٌ فَاشِيَةٌ جَ فَوَاشٍ -

الْفَوَاشِيَةُ: پھیلے ہوئے مویشی -
التَّفَشِيُّ - مہ - عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: حرف کا
پڑھنا -

فُصٌّ (ض) فَصًّا وَافْتَصَّ - كَذَا مِنْ كَذَا: جدا
کرنا -

فُصٌّ (ض) فَصِيصًا - الْجُنْحُ: زخم کا بہنا
- الْعَرَقُ: بھینہ ٹپکانا - الْوَلْدُ: بچے کا

فصل

فصل

فصل

چمکا علیحدہ کرنا۔

إِنْفِصَحَ الشَّيْءُ مِنْ كَذَا. نَكَّنَا.

إِنْفِصَحَ حَقَّةً مِنْهُ: أَجَاكَلَ حَقَّ زَبْرَدَتِي لِيْمَا.

الْفِصْحَانُ بِشَيْءٍ سَرَكَارَ كُنْتُمْ وَالَا.

الْفِصْحَاءُ: جُوبِيَا.

فَمُفْصَلٌ فَفَصْفَةٌ: الْكَلَامُ: جَلْدِي بُولَانِ

الدَّابَّةُ: فَفَصْفَهُ كَلَمَانَا.

تَفْصُفُصُ الْقَوْمُ عَنْ فُلَانٍ: حَتْرَقَ هُوَانَا.

الْفِصْفُفَةُ: أَيْكُ قَوْمٍ كِي تَكْمَاسُ هِي جَسُ كُو

جَانُورُ كَمَاسَتِي هِي أَوْرُ جَبُ تَبُ كَرُ هُوَ اسَ وَقْتُتِ

تَبُ يِي تَامُ هِي جُ فَصَافِصُ: عَوَامٌ "فِصْفُهُ" كَتَتِي

هِي.

الْفِصَالِصُ: قَوِيٌّ أَوْرُ مَبْضُوطٌ أَرَادَهُ وَالَا.

الْفِصْفَلُ: جُوبِيَا جُوبُو كَا بِيْزِي: نَالَانُ.

فَصَلٌ (ض) فَضْلًا: الشَّيْءُ: جِدَا كَرْنَا: عَلِيْمَهُ

كَرْنَا أَوْرُ اسِي سِي هِي "فَصَلُ الْخُصُومَاتِ"

بِيْنِي: جُجُكُورُنَ كَا فَيْصَلُ كَرْنَا _____ بِيْنَتَهُمَا فَاصِلُ

هُوَ نَالُوْلِدُ عَنِ الرِّضَاعِ: بِيْجِي كَاوَدُهُ جُجُزَانَا.

فَصَلٌ (ن) فَضُولًا: الْكُورُمُ: أَعْمُورُ كِي تَبَلُ مِي

دَانِدُ بِيْشِيَا _____ الرَّجُلُ عَنِ الْبَلَدِ: شُهرِي سِي

نُكَلُ جَانَا.

فَصَلٌ الْكَلَامُ: تَفْصِيلُ كَرْنَا _____ الشَّيْءُ:

لِصَلِّ لَصَلُ كَرْنَا: حَتْمِيْزِي: كَلَرَا كَرْنَا.

_____ النَّوْبُ: بِيْنِي كِي لِي قَطْعُ كَرْنَا.

الْقِصَابُ الشَّاةُ: كَلَرَا كَلَرَا كَرْنَا.

العقد: بَارُ كِي دُو مِهْرُو كِي دَرْمِيَانِ أَيْكُ

دُو سِرِي رَنُكُ كَامِرُهُوَالَا.

فَاصِلٌ: شُهرِي نِيْكَهٌ: جِدَا كَرْنَا.

الْفَصَلُ: الْمَوْلُودُ: دُوْدُهُ جُجُزَانِي كِي قَاتِلُ

هُوَ.

الْفَصَلُ: جِدَا هُوَانَا _____ عَنَّهُ: جِدَا كَرْنَا.

تَفْصِيلُ: عَضُو: عَضُو كَانَا.

تَفْصَلْتِ الْأَشْيَاءُ: بَعْضُ كَا بَعْضُ سِي جِدَا

هُوَ.

إِنْفِصَلَ الْوَالِدُ عَنِ الرِّضَاعِ: بِيْجِي سِي دُوْدُهُ

جُجُزَانَا _____ النَّخْلَةُ عَنِ مَوْضِعِهَا: جُجُورُ كِي

پودہ کو اکھیز کر دو سری جگہ لگانا۔

إِسْتَفْصَلَ: تَفْصِيلُ طَلَبُ كَرْنَا.

الفصل: مَهْ - دُو بِيْزُو كِي دَرْمِيَانِ رُوْكُ -

زَمِيْنِ كِي دَرْمِيَانِ حِدُ _____ مِيْنِ الْجَسَدِ: هِرْدُو

بُزُو كِي لِي كِي جِگَه - جُو زِي جِگَه - فِرْعُ: كَمَا جَانَا

هِي "لِلنَّسَبِ أَصُوْلٌ وَ فُصُوْلٌ" بِيْنِي فِرْعُ

_____ مِيْنِ الْكِتَابِ: كِتَابُ كَا أَيْكُ مُسْتَقِلٌ كَلَرَا.

سَالُ كِي چَارُ حَتُو كِي مِي سِي سِي أَيْكُ حَتِي - أَوْرُ وَهُ

چَارُ هِي يِي هِي - هِمَارُ - غَرِيْبُ - سِرْدِي - جُ

فُصُوْلٌ: الْفَصَلُ: حَقَّ وَبَاطِلُ كِي دَرْمِيَانِ فَيْصَلُ -

قَوْلٌ فَصَلٌ: قَوْلُ حَقِّ نِيَوْمُ الْفَصَلُ: قِيَامَتُ كَاوْنِ

أَوْرُ فَصَلُ الْخِطَابُ سِي خِرَادُوهُ خِطَابُ هِي جُو

حَقِّ أَوْرُ بَاطِلُ كِي دَرْمِيَانِ فَيْصَلُ كَرْنَا هُو - أَوْرُ فَصَلُ

الْخِطَابُ خَطِيْبُ كَا قَوْلُ أَلْمَاجِدِ هِي هِي.

الْفَصْلَةُ: فَصَلُ كَا اسَ مِرَّةً - كَجُجُورُ كَا پُودُهُ جُو أَيْكُ

جِگَه سِي دُو سِرِي جِگَه لَغَا يِي هُو.

الفصیل: شُهرِي نَاهُ كِي سَانِي جُجُوْنِي دِيوَارُ

أَوْ نَشِي يَا گَانِي كَا بِيْزِي: جُو مَالُ سِي عَلِيْمَهُ كِيَا گِيَا هُو جُ

فِصَالٌ وَفُضْلَانٌ وَفُضْلَانٌ.

الفصيلة: تَفْصِيلُ كَا مَوْنَتُ: رَانُ يَا أَعْضَاءُ جَسْمِ

كِي كُوْشُ كَا كَلَرَا: كَنِيْبُ - جُ نَفَاصِلُ: كَمَا جَانَا هِي

"جَاءَ قَوْمًا بِفِصِيلَتِيْمِ" بِيْنِي تَرَامُ آتِي.

الفَصَالُ: اِنْعَامٌ حَاصِلُ كَرْنِي كِي لِي سِي دَرَجِ

كَرْنِي وَالَا: مَسِيْفُ فَصَالُ: كَلُوَارُ قَاطِعُ.

الفِصَالُ: دُوْدُهُ جُجُزَانَا.

الفَاصِلُ: فَاقَا - حَكْمُ فَاصِلُ: حَكْمُ نَانِزُ.

الفَاصِلَةُ: مَوْنَتُ فَاصِلُ: بَارُ كِي دُو مِهْرُو كِي

دَرْمِيَانِ أَيْكُ دُو سِرِي رَنُكُ كَا مِرُهُ -

الفَاصِلَةُ الضُّغْرِيُّ فِي عِلْمِ الْغُرُوْضِ: عِلْمُ

عُرُوْضِ كِي اِصْطِلَاحُ مِي تَمِيْنِ حُرُوْفِ مَحْرُوكِ أَوْرُ

چُو تَمَا سَا كِنِ جِي سِي حَضْرِيْتُ أَوْرُ فَاصِلُهُ كُنِيْبِي:

چَارُ حُرُوْفِ مَحْرُوكِ أَوْرُ يَانُجُوَا سَا كِنِ جِي سِي

حَضْرِيْتِكُمْ - أَوْرُ فَاصِلُهُ كَجِ مِي اِيْمَانِي هِي جِي سِي قَاتِي

شُهرِي مِي جُ فَوَاصِلُ.

الفَيْصَلُ: حَاكِمُ - قَاضِي حَقِّ وَبَاطِلُ كِي دَرْمِيَانِ

فَيْصَلُ: جُو بِيْزُو أَمُورُ مِي فَيْصَلُ كَرْنَا - كَلُوَارُ قَاطِعُ جُ

فَيَاصِلُ - حَكْمُ فَيْصَلُ: حَكْمُ نَانِزُ - حَكُوْمَةُ

فَيْصَلُ: حَكُوْمَتُ نَانِزُهُ - حَضْرِيْتُهُ فَيْصَلُ: دُو مَارُ جُو

دُو هِسَارُ أَوْرُ مَقَاتِلُ كِي دَرْمِيَانِ فَيْصَلُ كَرْنَا هُو -

الْفَيْصَلِيُّ: حَاكِمُ - جُجُ -

الْمَفْصَلُ: جُو - جُجُ مَفَاصِلُ - الْمَفَاصِلُ: جَمْعُ

شُرْدِي جُجُورُ دُو بَارِزُو كِي دَرْمِيَانِ كِي زَمِيْنِ جَسْمِ

مِي سِغَرِيْزِي سِي أَوْرُ رِيْتِ وَغِيْرُهُ جَمْعُ هُو گَانِي هُو

جَسْمِ كَا پَالِي صَافِ أَوْرُ شُخْرَا هُو تَامُ هِي ذَاؤُهُ

الْمَفَاصِلُ: وَجْعُ مَفَاصِلُ - أَيْكُ بِيَارِي جَسْمِ

مِي جُو بُوْرُو كِي مِي دَرْدُو هُو تَامُ هِي.

الْمِفْصَلُ: زَبَانُ -

الْمِفْصَالُ: جَسْمِ كِي عَادَتُ هِي فَيْصَلُ كِي هُو -

الْمَفْصَلَةُ: فِي اِصْطِلَاحِ التَّجَارِيْنِ -

دُرُوَا زِي وَغِيْرُهُ كَا قَبْرُ -

فَصَمٌ (ض) فَضْمًا: الذَّمْلَجُ وَنَحْوُهُ: يَارِزُو

بِنْدُ وَغِيْرُهُ كُو بَغِيْرُ جِدَا كِي هُو سِي تُوْرْتَا _____

الشَّيْءُ: كَانَا.

فَصِمٌ: الْبَيْتُ: مَكَانُ كَا كَرْنَا.

أَفْصَمٌ: عَنَّهُ الْمَطْرُ: أَوْرُ الْخُضِي: بَارَشُ يَا خِيَارُ

كَا مُنْقَطِعُ هُوَانَا.

تَفْصَمٌ وَانْقِصَمٌ: مُنْقَطِعُ هُوَانَا - بَغِيْرُ جِدَا كِي

نُوْشَا - جُجُزَانَا.

الْفَصِيْمُ وَالْأَفْصَمُ: نُوْشَا هُوَانَا - كَمَا هُوَانَا - جُجُزَانَا هُوَانَا.

فَصِي يَفْصِي فُصِيَا: الشَّيْءُ مِيْنِ الشَّيْءِ

وَ عَنَّهُ جِدَا كَرْنَا زَا نَكَلُ كَرْنَا.

فُصِي تَفْصِيَةُ: الْدَحْمُ مِيْنِ الْعَظْمِ أَوْ عَنِ

الْعَظْمِ: كُوْشُ كُو بِيْزِي سِي عَلِيْمَهُ كَرْنَا - جِدَا كَرْنَا.

جُجُزَانَا.

فَاصَاةٌ مَفَاصَاةٌ: جِدَا هُوَانَا.

إَفْصِي الْفَاصَاةُ: خِيْرِيَا شُرِي نَكَلُ جَانَا - أَفْصِي

عَنَّا الْمَطْرُ: مُنْقَطِعُ هُوَانَا _____ الصَّابِدُ:

شُكَارِي كِي جَالِ مِي كِيْمَتُ - جُجُزَانَا.

تَفْصِي تَفْصِيَا وَانْقِصِي انْقِصَاةٌ مِيْنِ أَوْ

عَنِ الشِّدَّةِ أَوْ غِيْرِيهَا: رَهَائِي پَانَا - كَمَا جَانَا هِي

"تَفْصِي مِيْنِ الدُّيُوْنِ" قَرَضُ سِي نَجَاتُ پَالِي

_____ الرَّجُلُ مِيْنِ الرَّجُلِ وَ عَنَّهُ: جِدَا هُوَانَا.

در میان فضل کا مقابلہ کرتا۔

أَفْضَلٌ عَلَيْهِ: بڑھتا۔ بھلائی کرتا۔ مہربانی کرتا۔

أَفْضَلُ عَلَيْهِ فِي الْحَسَبِ: حسب میں بڑھ جانا

عَلَيْهِ: زیادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "زَأَيْتُ

صَفْهَمَ لَقَدْ أَفْضَلُ عَلَيَّ صَفِينًا" ان کی صف کو

دیکھا کہ ہماری صف سے بڑھ گئی ہے (

وَاسْتَفْضَلَ بَيْنَ الشَّيْءِ: بقیہ چھوڑنا۔

تَفَضَّلَ عَلَيْهِ: مہربانی کرتا۔ فضل کا دعویٰ

کرتا۔ تَفَضَّلَ الرَّجُلُ: شبِ خوابی کا لباس پہننا۔

کام کاج کے لیے لباس پہننا۔

تَفَضَّلَ الرَّجُلَانِ: ایک کا دوسرے پر فضل

کا دعویٰ کرتا۔

اسْتَفْضَلَ مِنَ الشَّيْءِ: بقیہ چھوڑنا۔

الْفَضْلُ: مہ۔ احسان۔ زیادتی۔ بقیہ کہا جاتا ہے

"فَلَا يَلَا يَنْبَلِكُ ذِهْمًا فَضْلًا عَنْ دِيْنَارٍ"

فلان اور ہم کمالک نہیں چہ جائیکہ دینار گویا یوں

کہا گیا کہ لَا يَنْبَلِكُ ذِهْمًا فَكَيْفَ يَنْبَلِكُ

دِيْنَارٍ اِیْنِ وَرِهْمَ كَمَا لَمْ نَمِيسْ تُوْبِنَارَ كَمَا لَمْ كَيْسِ

ہو سکتا ہے اور کہا جاتا ہے "فِي يَدِهِ فَضْلُ

الرِّمَامِ" اس کے ہاتھ میں گام کا کنارہ ہے۔ ج

فُضُولُ الْفُضُولِ: حاجت سے زائد مال

فُضُولُ الْبَدَنِ: جو طبعی طور پر بدن کے متاخذ

سے نکلے میسے پسند۔ حوک۔

الْفَضْلَةُ: فَضْلُ كَا سَمْرَةٍ: بقیہ۔ شراب ج

فَضْلَاتٌ وَفَضَالٌ۔

الْفَضْلَةُ وَالْفَضْلُ وَالْفَضَالُ وَهِيَ كَيْزُ الْجَوْ كَامِ

کے وقت یا نیند کے وقت نہیں یا جس کو گھر میں

استعمال کیا جائے۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ فَضْلٌ"

یعنی ایک کپڑا پہنے ہوئے ہے اسی طرح "اِمْرَاةٌ

فَضْلٌ"

الْفَضَالَةُ: بقیہ۔ ج فضالات۔

الْفَضَالُ: بہت فضل والا۔

الْفَضِيلَةُ: خوبی۔ زیادتی۔ فضل میں بلند مرتبہ

ج فضائل۔

الْفَائِضِلُ: فا۔ صاحب فضل۔ صاحب فضیلت

ج فَائِضِلُونَ وَفَضْلَاءٌ مَوْتٌ فَائِضِلَةٌ ج

فَائِضِلَاتٌ وَفَوَاضِلٌ۔

الْفَائِضِلَةُ: فضل میں بلند مرتبہ۔ بہت نعمت۔

فَوَاضِلُ الْمَالِ: مال کا نفع۔

الْفُضُولُ: بہت فضل کرنے والا۔

الْفُضُولُ: غنیمت میں جو تقسیم سے بچ رہے۔

الْفُضُولِيُّ: الایمنی چیزوں میں مشغول ہونے والا۔

الْمُفَضِّلُ: صاحب فضل۔ صاحب فضیلت ج

فَضْلَاءٌ۔

الْأَفْضَلُ: فضل میں بڑھا ہوا ج أَفْضَلُونَ

وَأَفْضِلُ مَوْتٌ فَضْلِي ج فَضْلِيَّاتٌ فَضْلٌ۔

المفضل والمفضل بہت فضل والا

المفضل: جس کے متعلق فضل کا حکم لگایا گیا ہو۔

المفضل والمفضلة: کپڑا جو کام کے وقت یا

سوئے وقت پہنا جائے یا گھر میں پہننے کا کپڑا ج

مفاضل۔

المفضل: بہت فضل والا۔ مَوْتٌ مَفْضَالَةٌ۔

فَضًّا يَفْضُو فُضَاءً أَوْ فُضُوًّا الْمَكَانُ جَلَدٌ

کشاہد ہونا۔ خالی ہونا۔ صفت فاضی (

فُضُوًّا الشَّجَرُ بِالْمَكَانِ): درخت بہت ہونا۔

الْفُضِيُّ الْفُضَاءُ: الْمَكَانُ جَلَدٌ وَسُجٌّ هُوَ

الْمَكَانُ جَلَدٌ وَسُجٌّ كَرْنَا _____ إِلَيْهِ:

پہنچنا۔

إِلَيْهِ يَسِيرُهُ: حید کو جانا _____ بہ اِلَى

كَذَا پھینا _____ بَقْلَانِ: کشاہد میدان کی

طرف لے جانا _____ الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔

الْفَاضِي فَالْكَشَاهِدُ: کہا جاتا ہے "مَقَامٌ فَاضِيٌ"

کشاہد مقام۔ کھلا ہوا۔ خالی۔

الْفُضَاءُ: وَسُجٌّ زِمِنٌ: میدان ج أَفْضَاءُ کہا جاتا

ہے "مَكَانٌ فَضَاءٌ" یعنی کشاہد جگہ۔

الْفُضَاءُ: زِمِنٌ پر جاری پانی۔ بسا اوقات پاخانہ

کے لیے کنایہ کرتے ہیں۔

الْفُضَاءُ: حنک انور کا دانہ۔ سَهْمٌ فَضًّا: اکیلا

تیر۔ طَعَامٌ فَضًّا: ملا جلا کھانا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ

أَمْرَهُمْ فَضًّا عَلَيْنِهِمْ" یعنی ان کا کوئی امیر نہیں۔

فَطَاةٌ (ف) فَطًّا: تُوْرْنَا: فَطًّا بِه الْأَرْضُ: زمین

پر چلک دینا _____ فَطًّا بِه عَنْ زَأَيْهِ: رائے سے

بھارتنا _____ الْقَوْمُ: غیر پسندیدہ چیز لانا

فَطًّا الْمَرْأَةُ: جماع کرتا۔ فَطَاتِ الْقِدْرُ

بِرَبْدِهَا: ہانڈی کا جھماکا لانا۔

فَطِنٌ (س) فَطًّا وَهْنِي ہوئی پیٹھ اور اُبھرے

ہوئے سینہ والا ہونا۔ صفت أَفْطًا مَوْتٌ فَطًّا ج

فَطًّا۔

فَاطًا مَفَاطًا بِه الْأَرْضُ: زمین پر چلک دینا۔

إِفْطًا أَفْطَاءً: فِرَاحُ حَالٍ هُوَ: بد طلق ہونا۔

فَلَانًا: کھلانا۔ بہت جماع کرتا۔

تَفَاطًا: سینہ اُبھارنا اور پیٹھ دھسنا۔

عَنَهُ: پیچھے ہٹنا _____ عَنِ الْقَوْمِ:

تکلیت کھانا اور حملہ کے بعد لوٹنا۔

الْفُطَاءُ: سینہ کا اُبھارنا اور پیٹھ کا دھسنا۔

فَطَّحَ (ف) فَطَّحًا وَفَطَّحَ الشَّيْءُ: چوڑا

کرتا۔

الْفُؤْدُ: لکڑی کو چھینا اور چوڑا کرتا۔

فَطَّحَهُ بِالْعَصَا: لٹا سہ مارنا۔

فَطَّحَ (س) فَطَّحَ حَارِسَةً أَوْ انْفَهَ: سر پاناک

چوڑی ہونا۔ صفت أَفْطَحَ الْأَفْطَحَ كَرَّثَ:

زَأَسٌ مَفْطَّحٌ: چوڑا سر۔

الْفِطْحَلُ: بڑا سیلاب جَمَلٌ فِطْحَلٌ: موٹا

أَوْتٌ ج فَطَّاحِلٌ: وَعِنْدَ الْمُؤَلِّبِينَ فَطَّاحِلٌ

الْعُلَمَاءُ: بڑے علماء وَرَمَزَ الْفِطْحَلُ: بہت

پُرَانًا زَمَانٌ أَوْ لُكُؤُنٌ لَمْ يَكَمْ كَمَا كَمْ وَهَذَا جَسْمٌ

أَدْوَى اِبْهِي پیدائش نہیں ہوتے تھے۔

فَطَّحَ (ن) فَطَّحًا: بَازَرُ كَهَاتَا: منع کرتا۔

فَطَّرَ (ن) فَطَّرًا: الشَّيْءُ: پھاڑنا _____

الْأَمْرُ: پیدائش کرتا۔ شروع کرتا _____ الْعَجِيْنُ:

خیر ہونے سے پہلے روٹی پکانا۔ فَطَّرَ نَابَ الْجَبِيْنُ:

أَوْتٌ كَيْ دَانَتْ ظَاهِرٌ هُوَ نَابَ الرَّجُلِ

النَّشَاءُ: اَلْهَيْوَانِ كَيْ اطْرَافٌ سِدْوَانَا:

فَطَّرُوا وَفَطَّرُوا فَطَّرُوا الْمَصَائِمَ: روزہ دار کا

اظہار کرتا۔

أَفْطَرُ الْمَصَائِمَ: کھانا اور پینا۔ اظہار کا وقت

قریب ہونا۔ صفت مَفْطِرٌ ج مَفَاطِرٌ: کہا جاتا

ہے "قَوْمٌ مَفَاطِرٌ وَفَطَّرَ الْمَصَائِمَ: اظہار کرتا۔

تاشوریا۔ فَطَّرَ الشَّقَّ: چھارنا۔

تَفَطَّرَ وَانْفَطَّرَ: پھٹنا۔ تَفَطَّرَتْ وَانْفَطَّرَتْ
الْأَرْضُ بِالتَّبَاتِ: زمین کا پھٹنا اور نباتات کا لگانا
القَصِيبِ: شاخ کے چوں کا لگانا شروع

ہونا۔

انْفَطَّرَ الْأَمْرُ: بجا کرنا۔

الفطر۔ مہ۔ چھٹن۔ ج۔ فطوز۔

الفطر۔ مہ۔ انور جب کہ اس کا سراخا ہر
الفطر وعیند الفطر: ماہ رمضان المبارک کے
بعد عید۔

الفطر: نباتات جو زمین سے اُگے۔ سانپ کی
چھتری کی ایک قسم۔ واحد فطرة۔

الفطرة۔ وہ صفت کہ ہر موجود اپنی ابتدائی
پیدائش میں اس پر ہو۔ طبعی حالت۔ دین۔ سنت۔
طریقہ۔ پیدائش۔ ج۔ فطوز۔

الفطوز والفطوزی: افطاری۔ ناشتہ۔

الفطیر۔ ہر وہ چیز جو وقت سے پہلے جلدی کی
جائے۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا رَأْيُ فَطِيرٍ“ یعنی بدی
بے سمجھے بوجھے ”عَجِيزٌ فَطِيرٌ“ بے خیر کا

گدھا ہوا۔ آنا۔ خُبِرَ فَطِيرٌ: تازہ روٹی۔ الفطیر:
تازہ دودھ۔ عیند الفطیر: پیوادی کی ایک عید
سینف فطاز: پھل تلوار۔

الفطاری: بے نفع مرد۔

الافطوز۔ تاک اور چروہ میں چھٹن ج۔ افطیل۔
الفطوزة۔ تفرق گھاس۔ موسم بہار کی پہلی
گھاس ج۔ نفطیل۔

الفطری: بے خیر کی روٹی۔
الفطو: فاحس کے دانت نکل آئے ہوں۔

فطس (س) فطسا۔ چھٹی تاک والا ہونا۔
صفت افطس اور چھٹی تاک کو بھی افطس کہتے
ہیں۔ مؤنث فطساء۔ ج۔ فطش۔

فطس (ض) فطوسا مرنا۔ صفت فطیش)
فطسا (الحیدد: لوہے کو چوڑا کرنا
ہ۔ بالکلیۃ: رو دور کرنا۔

الفطس۔ مہ۔ حب الآس واحد فطسة۔

الفطسة: مہ۔ جس کا تھوینہ بنایا جائے۔

الفطسة۔ تاک کا چھپان۔

الفطیس۔ بڑا ہتھوڑا ج۔ فطاطیس۔

الفطیسۃ۔ سوری کو تھو تھنی۔ انسان کا ہونٹ۔
درندہ کا سونڈ۔

فطم (ض) فطما۔ الحبل: ریش لانا۔ الزکد:
بچے سے دودھ چھڑانا۔ ه عَنْ الْعَادَةِ:
روکنا۔ منع کرنا۔ چھڑانا۔ کہا جاتا ہے ”لَا فطمتك
عَمَّا أَنْتَ عَلَيَّ“ یعنی تمہاری امید کو منقطع کر
دوں گا۔

الفطم۔ الرضیع: دودھ پیتے بچے کا دودھ
چھڑانے کے وقت پر پھینا۔ دودھ چھڑانے کے
قریب ہونا۔

انْفطم۔ دودھ چھٹنا۔ عنة: زکنا۔ باز رہنا۔
تفاطم۔ القوم: ایسے جانوروں کے بچوں والا
ہوتا جو دودھ چھڑانے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ
لینے رہیں۔

الفطام۔ دودھ چھڑانا۔ دودھ چھڑانے کا زمانہ۔
الفطیم۔ دودھ چھڑایا ہوا۔ ج۔ فطم۔
ناقۃ (فاطمہ و فاطمة) اونٹنی جس کا بچہ دودھ
سے چھڑا دیا گیا ہو۔ فاطمة الزهراء علیہا السلام
بچہ کی صاحبزادی کا اسم گرامی۔

الفطیمة بکری جس کا بچہ دودھ سے چھڑا دیا گیا
ہو۔

فطن (ن) و فطن (ک) و فطن (س) فطنا
وفطنا وفطنا وفطنا وفطنا وفطنا
وفطانة وفطونة وفطانية وفطانية للامروبه
والیہ: اور اک کرنا۔ سمجھنا۔ ماہر ہونا۔

فطنۃ: بالامر ولہ والیہ: سمجھنا۔ فطن
الجمیئد: شکر کو سمجھ دار بنانا۔
فاطنة مفاتنة بالكلام: سمجھانے کے لیے
کلام کو لگانا۔

فطن۔ لکلامہ: سمجھنا۔ کہا جاتا ہے ”تفطن
لِمَا أَقُولُ لَكَ“ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اس کو
سمجھو۔

الفطنة۔ مہارت۔ سمجھ۔ ج۔ فطن۔
الفاطن والفاطن والفاطن والفاطن

والفطن والفطن۔ زیرک۔ سمجھ دار۔ ج۔ فطن
وفطن۔

الفطونة۔ زیرک۔ سمجھ دار۔

فطۃ (س) فطها۔ کشادہ پشت ہونا۔ صفت
أفطۃ مؤنث فطها عن فطۃ۔

فطاً یفطو فطوا۔ الذابۃ: جانور کو تیز لگانا۔
فط (س) فطاطۃ و فطاطا و فططاً سخت کلام
اور بد خلق ہونا۔

فط (ن) فطاً و افطط۔ جنگلوں میں اوجھ کا پانی
نچوڑنا اور پینا اور یہ اس طریقہ پر کہ اونٹوں کو
سیراب کر دیتے ہیں اور پھر ان کے منہ کو پانڈھ
دیتے ہیں تاکہ جگالی نہ کرنے پائیں۔ پھر جب
پاس لگتی ہے تو پیٹ چاک کر کے اوجھ کو
نچوڑتے ہیں اور پیتے ہیں۔

الفط۔ مہ۔ بست بد خلق اور سخت کلام۔ ج
الفاظ اوجھ کا پانی جو جنگلوں میں نچوڑ کر پیا جاتا
ہے۔ ج۔ فطاطو و فططو۔

الفط۔ بڑی شکل و صورت کا ایک آبی درندہ
اور اس کے منہ کے اوپر کے جڑے میں دو لمبے
لمبے دانت ہوتے ہیں۔

الفطاطۃ۔ کلزا۔
فطع (ک) فطاعة الأمر: قیامت بڑھ جانا۔
قیامت میں حد سے گزر جانا۔ صفت فطع
وفطیع۔

فطع (س) فطعاً الإناء: برتن کا بھر جانا۔
فلان بالأمرو من الأمر: کام کو بڑا سمجھنا اور
اس کے انجام دینے کا اعتماد نہ کرنا۔

أفطع الأمر: قیامت بڑھ جانا۔ افطعه: امر
شیخ میں ڈالنا۔ افطع الأمر: شیخ پانا۔
أفطع: امر شیخ نازل ہونا۔

فطع الأمر: شیخ پانا۔ مالذ کرنا۔
تفطع واستفطع الأمر: شیخ پانا۔
الفطیع: خوشگوار پانی یا آب زلال۔
أفطی افطاء۔ الرجل: بد خلق ہونا۔

الفطی۔ بچہ دانی۔
فطع فطعۃ بالقیم: بکریوں کو فح کہہ کے

فطع فطعۃ بالقیم: بکریوں کو فح کہہ کے

پاکتا اور اس آواز کو قطعاً یا قطعاً فاعل کہتے ہیں۔
تَفَقَّعَ الزُّجْلُ فِي امْرَأَةٍ جَلْدِي كَرْتَا۔

فَعَلَ (ف) فَعْلًا كَرْتَا۔ پاتا اور اسم اس سے
الفعل ہے۔

فَعَلَ النَّيْتِ الشَّعْرَى: تَقَطَّعَ كَرْتَا اور وزن
تَقَطَّعَ كَالْيَسْرِ اے ہے جس کا مادہ ف ع ل
ہے۔

انفعل ہو جانا۔ متاثر ہونا۔

انفعل الشئ: ايجار کرنا الخَطُّ:
جعل سازی کرنا۔ کہا جاتا ہے "انفعل علي بن زوزا
و كذا" اس نے اس پر جھوٹ و بہتان باندھا۔
الفعل کام۔ ج فعل و افعال ج افعال۔

الافاعيل والتفاعيل۔ عند العرو ضيين:
علم عروض کی اصطلاح میں شعاع کے اوزان اور
وہ چار ہیں فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِلُنْ
و فاعلاتن اور بقية اوزان انہی سے ماخوذ ہیں۔
الفعلۃ۔ فعل کا اسم مرہ۔
الفعلۃ۔ عادت۔

الفعل۔ اچھا فعل۔ کرم۔ اور کبھی شرمیں
استعمال کیا جاتا ہے۔
الفعل۔ جمع فعل۔ جس کو بہت سے آدمی
کریں۔ فَعَالُ النَّاسِ: کھڑے کا دستہ فعل۔
الفاعل: فاعل فاعلون و فعلۃ مؤنث فاعلة
ج فاعلات و فواعيل۔

المفتعل۔ مہرہ ہر وہ چیز جو بغیر مثال سابق کے
بتائی جائے۔ کہا جاتا ہے "جاء فلان بالمفتعل"
یعنی اس نے بڑا کام کیا۔ شَعْرٌ مُفْتَعَلٌ۔ عجیب و
غریب شعر۔

فَعَمَ (ف) فَعَمًا و فَعَمَ و اَفَعَمَ الْاِنَاءُ: برتن
بھرتا۔ اَفَعَمَ الْمِسْكَ الْبَيْتَ: مہکا۔ خوشبو سے
بھرتا۔ اَرَفَعَمَ الزُّجْلُ: خوشی سے بھرتا۔ خوش
کرنا۔

فَعَمَ (ف) و فَعَمَ (س) فَعَمًا و اَفَعَمَ الزُّجْلُ:
غضبناک کرنا۔

فَعَمَ (ك) فَعَمَةً و فَعَوْمَةً الْاِنَاءُ او
السَّاعِدُ: بھر جانا۔ صفت فَعَمٌ و فَعَمَلٌ لام کی

زیادتی کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فَعَمٌ
الْاَعْصَاءُ" وہ تو مند ہے۔

اَفَعَوْعَمَ: بھر جانا اور بھرنا۔
سَيْلٌ مُفَعَمٌ: بھر دیے والا سیلاب۔ بطور اسرار
مجازی۔

الافعم۔ بھرنے کی وجہ سے پھلنے والا۔
فَعَى تَفْعِيَةَ الْجَمَلِ: اونٹ پر سانپ کی شکل کا
نشان لگانا۔

تَفَعَّى بِد خَلْقٍ فِي سَانِپٍ كِي طَرَحَ هُوَ تَا۔
الفاغی۔ غصے میں جھاگ نکالنے والا۔
الفاغیۃ۔ مؤنث الفاغی۔ چغل خورن۔ حنا
کے پھول۔

الافعم۔ بڑا سانپ۔ نصیحت قسم کا سانپ اور اس
کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر ایک زہریلا ہوتا
ہے۔ ج ا ف ا ع۔
الافاغی۔ رگیں۔ جوین ران کی رگ سے
پھیلتی ہیں۔

الافعوان۔ نر سانپ۔
اَرْضٌ مُفَعَاةٌ: سانپوں والی سرزمین۔
الافعاء۔ خوشبوئیں۔
المفعاۃ۔ نشان جو سانپ کی شکل کا ہو۔

فَعَّ (ن) فَعَّةً الْطَيْبُ: خوشبو بھرنے والا۔ کہا جاتا
ہے "فَعَّتْنِي الرَّايْحَةُ فَعًّا" یعنی مجھے اچھی خوشبو
مہکی۔

فَعَّرَ (ف) فَعَّرًا و فَعَّرَ الْاِفَاهَ: منہ کھولنا۔
(فَعَّرَ و اَفَعَّرَ) فَعْرَةً: منہ کھلانا۔ اَفَعَّرَ التَّوْرَةَ كَلِي
کا کھلانا۔

الفعر۔ مہ۔ گلاب کا پھول جب کہ کھلے۔
الفعرۃ۔ فعر کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے "وُلِدَ
بِالْفَعْرَةِ" یعنی ثریا کے طلوع ہونے کی ابتداء میں
پیدا ہوا۔ اور یہ جاڑے کے زمانہ میں ہوتا ہے۔

الفعرۃ۔ وادی کا پلاندہ فَعْرٌ۔
الفاغیر۔ ایک بھولے جانور کا نام ہے۔
الفاغیرۃ۔ ایک قسم کی خوشبو یا کباب یا ج نیلوفر۔
المفعرۃ۔ وسیع زمین۔ پیاز کا شگاف۔ کف سے
چھوٹا۔

فَعْفُورٌ: شہان جبین کا لقب۔
فَعَمَ (ف) فَعَمًا و فَعَمًا فَعْمًا الْطَيْبُ فَلَائِنَا: تاک
کو بس دینا۔

و فَاَعَمَ مُفَاعِمَةً: فَلَائِنَا: بوسہ لینا۔
فَعَمَ (ف) فَعْمًا و تَفَعَمَ: الْوَزْدُ: پھول کا
کھلنا۔

فَعِمَ (س) فَعَمًا بِالْشَيْءِ: مشتاق ہونا۔ حریص
ہونا۔ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
اَفَعَمَ الْمَكَانَ: خوشبو سے بھار دینا۔

الاناء: برتن بھردینا۔ الزُّجْلُ:
خوشی سے بھردینا۔
تَفَاعَمًا: ایک دوسرے کو بوسہ دینا۔

اِنْفَعَمَ الْمَكَانَ: خوشبو سے بھرنا۔
و اَفَعَمَ الزُّكَامَ: زکام کا اچھا ہونا۔
الفعم۔ مہ۔ کھانے کا وہ حصہ جو دانوں کے
درمیان سے نکالا جائے۔

فَعْمَةُ الطَّيْبِ: خوشبو کی بھوک۔
الفعم و الفعم۔ منہ ٹھوڑی مع جیزوں کے۔
الفعم۔ مشتاق۔ حریص۔ کہا جاتا ہے "كَلَبْتُ
فَعْمَ عَلَي الصَّيْدِ" کتا شکار کا حریص ہے۔

المفعم۔ مہ مشتاق۔ حریص۔
المفعموم۔ مہ۔ زکام زدہ۔ شئ مفعموم۔
خوشبوؤں سے بھرا ہوا۔

فَعًا يَفْعُو فَعْوًا الْاَمْرُ: پھیلنا
الزُّزُعُ: کھینچ کا خشک ہونا۔
اَفَعَى الزُّيْحَانُ: کھنڈو وار ہونا۔

فَلَانٌ: غنا کے بعد محتاج ہونا۔ حسن کے بعد
بد صورت ہونا۔ طاعت کے بعد نافرمان ہونا۔
ه: غضبناک کرنا۔ الشَّجْرُ:
درخت میں کھلی کھلنا۔

الفغو۔ مہ۔ حنا کا پھول۔
الفاغیۃ۔ حنا کی کھلی اور کہا گیا ہے کہ وہ پھول جو
حنا کی شاخ کو اٹا گاڑ دینے سے نکلتا ہے اور وہ حنا
کے پھول سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا
ہے کہ فاغیۃ: ہر خوشبودار کھلی کو کہتے ہیں۔
الفغورۃ۔ خوشبو۔ کہا جاتا ہے "فغورۃ الطیب"

خوشبو کی بھڑک۔

الْفَقُولُ - جمالیہ۔

فَقَا (ف) فَقَا وَفَقَا تَفْقَهُ الدُّخْلُ : پھوڑے کو چیرنا۔ شگاف کرنا۔ الْعَيْنُ : آنکھ پھوڑنا۔ تَفَقَّأ وَانْفَقَا شگاف ہونا۔ پھوڑنا۔

الْفَقَى : باریک سی جھلی جو جنین کے سر کے گرد گرد ہوتی ہے اور ولادت کے وقت پھٹ جاتی ہے۔ ج۔ فُقُوء۔

الْفُقَاةُ وَالْفَاقِيَاءُ : معنی الْفُقُوء۔

الْفُقَاءُ وَالْفَقِيءُ : پتھر کا گڑھا۔ سخت زمین کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے۔

فَقَّحَ (ف) فَقَّحًا وَفَقَّحَ الْحَجْرُ : کتے کے پلے کا آکھیں کھولنا۔ التَّبَاتَاتُ : نباتات کا کھلی دار ہونا۔ هُكُوْنٌ كَلْنَا : فَلَانَا : کسی کے ذہر پر مارنا۔ الشَّيْءُ : کسی چیز کا سبب ہونا۔

تَفَقَّحَ كَلْنَا : شر کے لیے آمادہ ہونا۔

تَفَاقَحَ الْقَوْمُ : ایک دوسرے کی طرف بیٹھ کرنا۔

الْفَقْحَةُ مِنَ النَّبْتِ : کلی۔ ذہر کا حلقہ۔ ج۔ فِقَاحٌ (وَالْفَقَاحَةُ) : پھلی۔

الْفُقَّاحُ مِنْ كُلِّ نَبْتٍ : کلی۔ کہا جاتا ہے "فَلَانًا تَفَقَّحَ لِلشَّيْءِ" فلاں شر کے لیے آمادہ ہے۔

فَقَدَهُ (ض) فَقَدَا وَفَقَدَانَا وَفَقَدُوا وَفَقَدُوا وَانْفَقَدُوا : گم کرنا۔ کھونا۔

الْفَقْدَةُ الشَّيْءِ : گم کرنا۔

تَفَقَّدَهُ وَانْفَقَدَهُ : گم شدہ کی تلاش کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا انْفَقَدْتُهُ مِنْذُ انْفَقَدْتُهُ" یعنی جب سے میں نے اسے گم کیا تلاش نہیں کیا۔

تَفَاقَدَ الْقَوْمُ : بعض کا بعض کو کھونا۔

الْفَاقِدُ : نا۔ وہ عورت جس کا شوہر یا لڑکا مر گیا ہو۔

الْفَقِيْدُ : گم شدہ۔ کہا جاتا ہے "مَاتَ غَيْرَ فَقِيْدٍ" او غَيْرَ مَفْقُوْدٍ" یعنی وہ مر گیا اور اس کے مرنے کی کوئی پروا نہیں۔

فَقَّرَ (ن ض) فَقَّرَا وَفَقَّرَ - كهُونَا - الْخَزْرُ : پرونے کے لیے، بندھنا۔ الشَّيْءُ : کانا۔ اور اثر کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَقَّرْتُهُ وَفَقَّرْتُهُ الدَّاهِيَةُ" اس پر ایسی مصیبت نازل ہوئی جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا۔ فَقَّرَ الْفَيْسَلَةَ : پودا لگانے کے لیے گڑھا کھودنا۔

فَقَّرَ (س) فَقَّرَا : ریڑھ کی ہڈی میں مرض یا شکستگی کی وجہ سے درد ہونا۔ صفت فَقِيْرٌ وَفَقِيْرٌ وَمَفْقُوْرٌ۔

فَقَّرَ (ك) فَقَّرَا وَانْفَقَّرَ : مغلّس ہونا۔

انْفَقَّرَ إِلَيْهِ : محتاج ہونا۔ صفت فَقِيْرٌ ج. فَقَّرَاءُ مَوْثُ فَقِيْرَةٌ ج. فَقِيْرَاتٌ وَفَقَائِرٌ وَفَقَّرَاءُ۔

أَفْقَرَهُ مغلّس بنانا۔ هَذَا الصِّدْقُ : شکار کا پانی جانب سے موقع دینا۔ هَذَا الْأَرْضُ : زراعت کے لیے عاریت پر دینا۔ أَفْقَرَهُ ظَهَرَ مَهْرُهُ : سواری کے لیے پھیرا عاریتاً دینا۔ أَفْقَرُ ظَهْرُهُ : المهر : پھیرے کا سواری کے قابل ہونا۔

تَفَقَّرَ : فقیری ظاہر کرنا۔

الْفَقْرُ : مہ۔ مغلّس۔ غم۔ ج. فُقُوْرٌ وَمَفَاقِيْرٌ۔ پھین۔ کات۔ ج. أَفْقَرٌ۔

الْفَقْرُ : مغلّس۔ جانب ج. فَقْرٌ۔

الْفَقْرَةُ : ریڑھ کی ہڈی ج. فِقْرٌ وَفِقْرَاتٌ وَفِقْرَاتٌ۔

الْفَقَارَةُ : ریڑھ کی ہڈی ج. فَقَارٌ۔

ذُو الْفَقَارِ : سیدنا علیؑ کی تلوار کا لقب۔ فَقَارُ الْجَوْزَاءِ : ہرج جوڑا کے ستارے۔

الْفَقْرَةُ : فقر کا اسم نوع۔ نشان پہاڑ کا ہوا کسی اور چیز کا۔ کلام یا جملہ کا لطیف کلمہ۔ تصدیہ کا عمدہ شعر ج. فِقْرٌ۔

الْفَقْرَةُ : قرب۔ کہا جاتا ہے "هَؤُمْنِكَ لَفَقْرَةٌ" یعنی تم سے قریب ہے گڑھا۔ گر بیان۔ امر عظیم ج. فِقْرٌ وَفِقْرَاءٌ۔

الْفَقَارِيُّ : ریڑھ کی طرف منسوب۔

الْفَاقِرَةُ : سخت مصیبت جو گویا ریڑھ کی ہڈی کو توڑے۔ ج. فَوَاقِيْرٌ۔

الْفَقِيْرُ : مغلّس۔ محتاج ج. فَقْرَاءٌ مَوْثُ فَقِيْرَةٌ ج.

الفقيرات و فقائرو فقراء۔ حوض کی نالی گڑھا جس میں کھجور کا پودا لگایا جائے۔ عوام اسے پیش کہتے ہیں۔ ج. فِقْرٌ - الْفُقْرُ - ترتیب وار کنوئیں۔ جن کا پانی ایک دوسرے میں جاتا ہو۔ وَكَيْفَةُ فَقِيْرَةٌ : کھدا ہوا کنواں۔

الْفَيْقِرُ : مصیبت۔

المُفَقِّرُ : قوی مرد۔ سواری کے قابل پھیرا۔

المَفْقَارُ : اسباب فقر اور اس کیلئے کوئی واحد نہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ فقری جمع خلاف قیاس ہے جیسے حسن کی جمع محاسن اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مَفْقَرَةٌ بمعنی فقری جمع ہے۔

المُفَقَّرُ : مضبوط ریڑھ والا۔ کہا جاتا ہے "سَيْفٌ مُفَقَّرٌ" تلوار کہ جس کی پشت پر ہموار خراشے ہوں۔ وَجِبِلٌ مُفَقَّرٌ : بالکل فرما تیر دار مرد۔

فَقَّسَ (ض) فَقَّسًا : الْبَيْضَةُ : انڈے کو ہاتھ سے توڑنا۔ پھاڑنا۔ الطَّائِرُ بَيْضَتُهُ : پرندہ کا انڈے کو توڑنا اور پینڈے نکالنا۔

الْحَيَوَانُ : قتل کرنا۔ الرَّجُلُ : بالوں کو پکڑ کر نیچے گھسیٹنا۔ ه عَنِ الْأُمْرِ : ذہروستی ہانا۔

عَنِ الشَّيْءِ : جھین لینا۔

فُقُوْسًا : اچانک مرنا۔ کودنا۔

تَفَقَّسَ وَانْفَقَّسَ الشَّيْءُ : اُلٹ جانا۔

تَفَقَّسَ الرَّجُلَانُ : ایک دوسرے کے بالوں کو پکڑ کر نیچے گھسیٹنا۔

الْفُقَّاسُ : جوڑوں کا مرض۔

الْفُقُوْسُ : خروڑہ کی ایک قسم واحد فَقُوْسَةٌ۔

الْمِفْقَاسُ : جال کی لکڑی جو پرند پر الٹ پڑتی ہے۔

فَقَّسَ (ن) فَقَّسًا الْبَيْضَةَ : انڈے کو ہاتھ سے توڑنا۔

فَقَّصَ (ض) فَقَّصًا وَفَقَّصَ الْبَيْضَةَ وَنَحْوَهَا : انڈا وغیرہ کو ہاتھ سے توڑنا۔ پھاڑنا۔ صفت مَضْرُوبٌ فَقِصَةٌ وَمَفْقُوضَةٌ۔

تَفَقَّصَتْ وَانْفَقَّصَتْ : الْبَيْضَةَ عَنِ

الفریح: اڑے کا ٹونٹا اور بچہ کا ظاہر ہونا۔

الفقوص: کچا خربوزہ۔

الفقیص بل کے لوہے کا بھلہ۔

المفقاص: گرز کے سرے کا گول حصہ۔

فقط: کلمہ ہے جو نا اور قط سے مرکب ہے اور

اس کے معنی لاغیر کے ہیں۔ یعنی صرف۔ بس۔

فقط الحساب: قیمتین مقدار کے بعد فقط

لکھنا تاکہ کوئی کچھ بڑھانے سکے۔

فقع (ف ن) فقعاً و فقوفاً. لؤنہ: رنگ کا

صاف و خالص ہونا یا گہرا زرد ہونا

الزجل: سخت گرمی سے مرجانا۔ الغلام:

لڑکے کا بڑھتا (فقعا) الشئی: چرانا۔ کہا

جاتا ہے "فقعته الفواقع" مصائب نے اسے

ہلاک کر دیا۔

فقع (س) فقعا۔ سرخ رنگ ہونا۔ گہرا رنگ

ہونا اور اکثر اس کا استعمال زرد رنگ کے لیے

ہے۔

فقع۔ بے معنی گنگو کرنا۔ أصابعہ:

انگلیاں چٹکانا۔ الوذدة: گلاب کی بیج کو

ایک ہاتھ پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے مار کر پھاڑنا

اور آواز نکالنا۔

الأدیم: چڑے کو سرخ رنگنا۔

ألفق: محتاج ہونا۔ بڑا حال ہونا۔

تفأقت عینناہ: آنکھوں کا سفید ہونا۔

إنفقع: پھٹنا۔

الفقع و الفقع: سانپ کی چمتری جو نرم اور

سفید ہوتی ہے۔ ج الفقع و فقوع و فقعة الفقع۔

مٹائی۔

الفالق: نا۔ خالص صاف رنگ اور مشہور یہ

ہے کہ یہ زرد رنگ کیلئے صفت کے طور پر

مستعمل ہے۔

الفاقعة: مؤنث فاقع۔ مسبب ج فواقع۔

الافقع: بہت زیادہ سفید مؤنث فقعاء ج فقع۔

الفقیع مرد سرخ قام۔ کبوتر کی ایک قسم۔ واحد

فقیعة۔

الفقع: سخت سپیدی۔

لؤن (فقاعی) گہرا رنگ۔ کہا جاتا ہے آبیض

فقاعی۔ بہت سفید۔

الفقاع: بڑا سخت خبیث۔

الفقاع: جو کی شراب۔

الفقاعی: جو کی شراب بیچنے والا۔

الفقاعة: بلبہ ج فقاعیع۔

المفقع: نوکدار موزہ۔

المفقعة: ایک کالے رنگ کا پرندہ ہے جس

کے ذم کی جڑ سفید ہوتی ہے۔

فقق فققعة: سخت محتاج ہونا۔

الکلب: کتے کا ذرے بھونکنا۔

() وتفقق (الزجل فی کلامہ: طلق سے

نکالنا۔

المفقاہ و المفقاعة: بیوقوف۔ بکواس کرنے

والا۔

فقل (ن) قلاً۔ البیدر: کلیان میں تلہ بکیرا۔

أقل: المکان: سرسبز ہونا۔

الفقل: سرسبز۔

المفقلة: تلہ بکیرے کا آلہ ج مفقایل۔

فقم (ن) فقماً و تقم الزجل اور الکلب:

ناک کو پھڑکانا۔ الموزة: جماع کرنا۔

فقیم (س) فقماً الإناہ: بڑ ہونا۔ کہا جاتا ہے

"أكل الزجل حتى فقیم" مرد نے کھایا یہاں تک

کہ خمہ ہو گیا۔ () فقماً و فقماً الزجل

سانے کے دائروں کا باہر لگانا۔ صفت أقم مؤنث

فقماً ج فقم۔ الزجل: اکرنا۔

فقیم (س) فقماً و فقماً و فقوماً و فقماً (ک)

فقماً و فقماً۔ الأمز: عظیم ہونا اور تارہوار ہونا۔

صفت أقم فقم الشئی: وسیع ہونا۔

الفقم و الفقم: تھو تھمی کا کنارہ۔ جزا۔

الفقم: سمجھ دار آدمی جو مقابل پر غالب آئے۔

الفقم: منہ۔

الفقمة و الفقمة: ایک قسم کی پھلی۔ اور یہ

پھلی دودھ دینے والے جانوروں میں سے ہے۔

فقه (س) فقهاً و فقہ (ک) فقهاً جانا۔ فقہ

ہونا۔

فقہ (س) فقهاً و تقه الشئی او الکلام:

سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "فقہ عنہ الکلام" اس نے

اس کی سمجھ کو سمجھ لیا۔ و تقه الزجل: علم فقہ

سمجھنا اور حاصل کرنا۔

فقہ (ک) فقهاً الزجل: علم میں غالب ہونا۔

فقہ و ألقه فلاناً: سکھانا۔ سمجھانا۔

فألقه فلاناً: فقہ میں غالب ہونا۔

الفقہ: کسی شے کا جاننا اور سمجھنا۔ احکام شرعیہ

کا علم اولہ تصدیق کے ساتھ حذات زیری۔

الفقہ و الفقہ و الفقیہ: بہت سمجھ دار ذکی

عالم۔ علم فقہ کا جاننے والا۔ ج فقہاء مؤنث

فقہاء و فقیہاء ج فقہاء و فقیہاء۔

المشتفیهة: نوحہ کرنے والی کا ساتھ دینے

والی عورت۔

فقاً یفقو فقوا۔ الثرة: نشان قدم پر جانا۔ پیچھے

جانا۔

فقوة السهم: سوار۔ حیر ج فقی۔

فک (ن) فکاً۔ الشئی: جدا جدا کرنا۔

العقدة: گرہ کھولنا۔ العظم: ہڈی کا جگہ

سے ہٹارنا۔ الخشم: ہمر کو توڑنا۔

فک (ن) فکاً و فکاکاً و فکاکاً الأیسیر:

قیدی کو چھڑانا۔ یدة: ہاتھ کھولنا۔

الإذغام: ادغام نہ کرنا جیسے لا تمذ و لا تمذ

میں۔

فک (ن) فکاً و فکوکاً الزجل: بہت بوڑھا

ہونا۔

فک (س) فکاً و فکوکاً و افتک الرهن۔

رہن چھڑانا۔

فک (س) فککاً و الفک العظم: ہڈی کا جگہ

سے ہٹ جانا۔

فک (س) فکاً و فکة۔ ست دیو قوف ہونا۔

أفک الظننی من الجبال: ہرن کا جال میں بڑ

کر نکل بھاگنا۔

فککة: الگ الگ کرنا۔ چھڑانا۔

تفکک: الگ الگ ہونا۔ چھٹنا۔

المختث خیف الحركاتی کی حال چلانا۔

إفعلك. جدا ہونا۔ کھانا۔ العتيد: آزاد کیا جانا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَنْفَكِ يَفْعَلُ كَذَا"۔ میٹ ایسا کرتا رہا اور یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور لغوی اس کے لیے لازم ہے۔

إستفكك: رہائی طلب کرنا۔ الفكك: معجزہ۔ جراح فككوك۔

الفكك والفكك والفكك جس سے رہن وغیرہ کو چھڑایا جائے۔

الفكك: فا۔ بہت بوزھا۔ بہت بیوقوف ج فككوك وفككوك۔

الفكك صیر مبالغہ۔

الأفكك: وہ شخص جس کی بڑی بوز سے ہٹ گئی ہو۔ مؤنث فكككج فككك۔

فكك (ض) فككوا وفككوا وفككوا وفككوا وفككوا وفككوا۔ سوچنا۔ غور کرنا۔ تامل کرنا۔

الفكك: سوچ بچار۔ غور و فکر۔ ج افككوا کہا جاتا ہے "ماتلني في الأمر فككوا وفككوا" مجھے معاملہ میں کوئی حاجت نہیں۔ "ولني في الأمر فككوا" میرے لیے معاملہ میں غور و فکر ہے۔

الفكك والفكك: معاملہ میں سوچ بچار۔ غور و فکر۔ ج فككوك۔

الفكك والفكك: بہت سوچ بچار کرنے والا۔ فكك (س) فككنا وفككنا وفككنا وفككنا۔ غم یا غصہ کی وجہ سے سر جھکانا۔

فكك (ف) فككنا وفككنا وفككنا وفككنا۔ کہا جاتا ہے "ذهبت فما يذرى أين فكك" گیا اور نہیں معلوم کہ کہاں گیا۔

الفكك: کھائی۔ الفكك في فعلية: اچھی طرح سرانجام دینا۔

الأفكك لوگوں کی جماعت۔ کبھی۔ کہا جاتا ہے احدہ الفكك جبکہ خوف یا سردی سے کاہنے لگے اور یہ توہین کے ساتھ مستعمل ہے "وجاء القوم بأفككهم وبأفككهم" یعنی تمام قوم آئی۔

المفككول: کبھی والا۔ فكك (ن) فككنا في الكذب: جھوٹ بولنے

میں اصرار کرنا۔

فكك: تعجب کرنا۔ فکر کرنا۔ افسوس کرنا۔ پشیمان ہونا۔

فكك (س) فككها وفككها: خوش طبع بننے بنانے والا ہونا۔ صفت فاكهه وفككه وفككها وفككها۔

هفك: تعجب کرنا فكك للنسي: تعجب ہونا۔ کہا جاتا ہے "لقد سمعت حديث فلان لفا فككته لفا" اگر تم فلاں کی بات سنو تو تعجب نہیں ہو گے۔

فكك الزجل: میوہ کھانا۔ کلام شیریں کر کے خوش کرنا۔

فكك: میوہ کھانا۔ بالشئ: لذت حاصل کرنا۔ یہ: فائدہ اٹھانا۔ هفك: تعجب کرنا۔ پشیمان ہونا۔ بفلان: غیبت کرنا۔ کہا جاتا ہے "توتكك القوم بفككهم بعرض فلان" یعنی میں نے لوگوں کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ فلاں کی غیبت سے لذت حاصل کر رہے تھے۔

فاكك مفككها الزجل: مزاح کرنا۔ ففكك القوم: آپس میں مزاح کرنا۔ الفكك والفكك: خوش طبعی۔

الأفكك: خوش طبعی۔ تعجب انگیز۔ الفكك: خوش طبع۔ ہنسوں۔ خود پسند۔ آکر باز۔ میوہ خور مؤنث فكككج فكككھات۔

الفكك: میوہ والا۔ خوش طبع۔ الفكك: مؤنث فاكهہ۔ ہر قسم کا پھل جس کو کھا کر لذت حاصل کی جائے ج فواكه فاكهه الشفاء۔ آگ۔

الأفكك: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "فلان من أفكك الناس" فلاں بہت مزاح کرنے والا ہے۔ الفاككھالی: میوہ فروش۔

فل (ن) فلأ وفلأ: تلوار کو دندنہ دار کرنا۔ القوم: قوم کو گلست دینا۔ فل (ض) فلأ عن فلان عقله: عقل زائل ہونے کے بعد لوٹ آنا۔

أفل: الزجل: بال ضائع ہونا۔ القوم: قوم کا ترجمہ زمین پر بیٹھنا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

قوم کا ترجمہ زمین پر بیٹھنا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔ فعلل: قوم کا گلست کھانا۔

فلج

استفقلت الشئ من يده. چھین لینا۔
 الفلج. رہائی۔ کہا جاتا ہے "مما لك منه
 فلتت" جس میں اس سے رہائی نہیں۔
 فَرَسَ فَلْتَانِ تَمْرَ كَهْوَرَا جَ فَلْتَانِ وَرَجُلٌ
 فَلْتَانِ: چست، دلیر، قوی دل، شرکی طرف
 جانے والا۔
 فَرَسَ فَلْتٌ وَفَلَّتْ تَمْرَ كَهْوَرَا۔
 الفلانة فلنت كالم مرة بغير غور وكره كالم۔
 مہینہ کی آخری رات ج فلنات۔
 فَلْتَانُ الْكَلَامِ: کلام کی لغزشیں۔ غلطیاں۔ کہا
 جاتا ہے "حَرَجَ الرَّجُلُ فَلْتَةً" مرد اچانک نکل
 گیا وحدث الأثر فلانة اچانک واقعہ ہو گیا و هو
 فني بودة لثة فلانة وہ لسی چھوٹی اور تنگ چادر میں
 ہے جس کے دونوں کنارے مل نہیں سکتے۔
 كَسَاءَ فَلْوُجْ چھوٹی تنگ چادر۔
 فَلَجَ (ان ض) فَلَجَا وَفَلَوْجًا الشئ: پھاڑنا۔
 دو گلوے کرنا۔ الحزوات الأرض كاشكار
 كازمن كو جوتنا۔ الوالى الجزية ينتهم
 وعلينهم: والی کا ہزیو كو تقسیم کرنا۔ مقرر
 کرنا۔ فَلَجَا وَفَلَجَا الْقَوْمَ وَ عَلَى
 الْقَوْمِ: کامیاب ہونا۔ سہمہ: غالب آنا
 الزجل: مطلوب پر فتح مند ہونا۔
 لثة: موافق فیصلہ کرنا۔ فَلَجَ بِحَاجَتِهِ: ثابت کرنا۔
 فَلَجَ (س) فَلَجًا وَفَلَجَةً: قدموں یا ہاتھوں یا
 دانتوں کے درمیان فاصلہ والا ہونا۔ صفت أَفْلَجَ
 مؤنث فَلَجَاءَ جَ فَلَجَ: فاج زورہ ہونا۔
 فَلَجَ: فاج زورہ ہونا۔
 فَالَجَةُ: کامیابی میں غالب آنا۔
 فَلَجَ الشئ: تقسیم کرنا۔ الأثر: غور
 کرنا۔ تدبیر کرنا۔
 أَفْلَجَ: مطلوب پر فتح مند ہونا۔ عَلَى
 خَصْمِهِ: غالب آنا اور کامیاب ہونا۔
 اللَّهُ فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ: غالب کرنا۔
 بُوْهَانَةٌ: دلیل ظاہر کرنا اور پیش کرنا۔
 لحن: موافق فیصلہ کرنا۔
 تَفَلَجَ: پھٹنا۔

فلج

انفلج الضنح: صبح کاروش ہونا۔
 الفلج: مہ آدھا۔ جاند ج فلوج۔
 والفلج والفلجة: کامیابی فتح مندی۔
 الفلج: آدھا۔ والفلج: ایک قسم کا
 بیابان ج فوالج۔
 الفلج: مہ دونوں قدم یا دانتوں کے درمیان
 فاصلہ۔ صبح مندی۔
 الفلج: فاج ایک مرض ہے جس سے پورے
 بدن کا آدھا حصہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ دو کوہان
 والا اونٹ۔ من السهام: کامیاب تیر۔
 الفلججة: خیمہ کا ایک تختہ۔
 المفلجة: من الأسنان: علیہ علیہ وادنت۔
 المفلوج: فاج زورہ ج مفلوج۔
 الفلوج: گلنے والا۔
 الفلوجة: کاشت کے قابل زمین ج فلانج۔
 فلج (ف) فلجًا الأرض: زمین جوتنا۔
 فلانًا: مکر کرنا۔ فلاحًا: لفقوم و
 بالقوم: خرید و فروخت میں دھوکا کرنا۔
 فلج (س) فلجًا: نیچے کے ہونٹ کا پھٹنا۔
 صفت أفلاج اور ہونٹ کو فلجاء کہتے ہیں ج
 فلج۔
 فلج به: ٹھٹھا کرنا۔ استہزاء کرنا۔ مکر کرنا۔
 أفلاج الرجل: مطلوب پر کامیاب فتح مند
 ہونا۔ کوشش میں کامیاب ہونا۔ بالشئ:
 زندگی گزارنا۔
 استفلج به: کامیاب فتح مند ہونا۔
 الفلج: مہ۔ چھین ج فلوج۔
 الفلج والفلجة: نیچے کے ہونٹ کا پھٹنا۔
 الفلجة: زمین قابل کاشت۔
 الفلج والفلح: کامیابی۔ درستی۔ حال۔ بقا۔
 نجات۔ کہا جاتا ہے "حتی علی الفلاح" یعنی
 کامیابی اور نجات کے راستے کی طرف آؤ۔
 الفلاح: بحری۔
 الفلحة والفلاحة: کھیتی باڑی۔
 الفلاح: کاشکار۔ ملاح: کرایہ پر جانور دینے والا
 ج فلاحًا و فلأحون۔

فلذ

المفلحة: باعث کامیابی۔
 مفلج الشفة او الیدین او القدمین:
 سردی کی وجہ سے پھٹے ہوئے ہونٹ یا ہاتھ یا قدم
 والا۔
 تفلحش: بے بلائے مہمان ہونا۔
 الفلحش: حریص۔ لالچی۔ کہا۔ بوڑھا رکھ۔ وہ
 شخص جو لوگوں کے کھانے کے انتظار میں رہے۔
 الفلحسة: لاغر سرین کی بد صورت عورت۔
 الفلحاس: بیچ بد صورت۔
 فلج (ف) فلجًا الشئ: پھاڑنا۔
 الأمر: واضح کرنا۔
 فلجة: مارنا۔
 الفلج باتمہ کی بک ج فلج۔
 غلام فلود: موٹا تازہ لڑکا۔
 فلذ (ض) فلذًا من المال شيئًا: حصہ جدا
 کرنا۔
 فلذ: گلے گلے کرنا۔
 افلذة المال: کچھ حصہ لینا۔ افلذ من
 فلان حقه: کسی سے اپنا حق لینا۔
 الفلذ: اونٹ کا کلیجہ ج أفلاذ۔ أفلاذ
 الأرض: زمین کے خزانے۔
 الفلذة: جگر یا گوشت یا سونے وغیرہ کا گلاب
 فلذ و فلذو أفلاذ۔
 الفلوذ والفلوذج والفلوذق: فلودہ ج
 فوالیذ۔
 الفلولاذ: فلودہ ج فوالیذ۔
 المفلوذ من الشیوف: فلودہ کی بنی ہوئی
 تلوار۔
 الفلرؤ والفلرؤ الفلرؤ: سپید تابا۔ لوہے کا میل۔
 زین کی ساری دھاتوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ بڑا
 سخت آدمی۔ بخیل۔ جس پر تلوار کو آزمائیں۔
 فلنس القاضی: فلانڈ: کسی کے دیوالیہ
 ہونے کا حکم لگانا۔
 أفلس: بال باقی نہ رہنا۔ اور اس سے یہ ارادہ
 کیا جاتا ہے کہ وہ ایسی حالت پر پہنچ گیا ہے کہ اس
 کے بارے میں یوں کہا جاسکے کہ "لینس معة"

فَلَسْ یعنی اس کے پاس پیسے نہیں۔ صفت
مفلس ج مفلسون و مفالیس۔

الفلس۔ بیس ج افسلس و فلؤس۔ فلؤس
السمک: پھلی کے سننے اور کما جاتا ہے "فلان
فلس من کل خیر" یعنی فلاں ہر خیر سے خالی
ہے۔

الفلاس۔ صرف پیسے فروخت کرنے والا۔
المفلس مفہ جس کی کمال پر پھلی کے سننے
جیسے ہوں۔

تَفَلَسَفَ فلسفی بنا۔ مسائل علیہ میں بحث
کرنا۔ صداقت کا دعویٰ کرنا۔

الفلسفة۔ حکمت۔ مسائل علیہ میں غور و فکر۔
اشیاء کا علم بحسب الطائفة البشریة۔
الفیلسوف۔ فلسفی ج فلاسفة۔

فَلَسَّ الزَّجُلُ۔ چھڑانا۔ رہائی دینا۔
أَفْلَصَ وَأَفْلَصَ وَتَفْلَصَ رَهَائًا بِأَنَّ
إِفْلَصَ مِنْ يَدِهِ لِيَأْ.

فَلَطَ (ن) فَلَطًا عَنِ الشَّيْءِ: سرگشتہ ہونا۔
جیزان ہونا۔

فَالَطَهُ أَجَاكَ آتًا بِأَنَّ
أَفْلَطَهُ الْأَمْرَ أَجَاكَ آتًا
أَفْلَطَ بِالْأَمْرِ أَجَاكَ مَشْغُولًا كَمَا جَانَا
الْفَلَطُ أَجَاكَ۔

فَلَطَحَ فَلَطَحَةً الْقُرْصُ: تکیہ کو پھیلانا۔ چوڑا
کرنا۔

الْفِلْطَاحُ وَالْمَفْلُطَاحُ: چوڑا کیا ہوا۔
الْفِلْطَيْسَةُ: سور کی تھو تھنی۔
فَلَعَ (ف) فَلَعًا وَفَلَعَ الشَّيْءُ: پھاڑنا۔

تَفْلَعُ پھڑنا۔
إِنْفَلَعُ پھڑنا۔
الْفَلْعُ وَالْفَلْعُ بَرَاءً: پھرن ج فلؤع۔

الفلعة۔ کوبان کا ایک کھراج فلغ۔
الفالعة۔ مصیبت ج فوالع۔
سَنَفَ فَلُوعٌ شَمِيرٌ بَرَاءً ج فَلُوعٌ
سَنَفٌ مَفْلُوعٌ شَمِيرٌ بَرَاءً۔

مَزَاوِدٌ مَفْلُوعَةٌ: چڑے کے کھڑوں کا پونڈ لگا ہوا

توشہ دان۔

فَلَعٌ (ف) فَلَعًا: راسہ: سر توڑنا۔ کچلنا۔

تَفْلَعُ الشَّيْءَ: ریزہ ریزہ ہونا۔

فَلَعَلَّ الطَّعَامَ: کھانے میں مرچ ڈالنا۔

فَلَعَلَّ وَتَفَلَعَلَّ: جھونے جھونے قدم رکھنا اور
تکبر سے چلنا۔ تَفَلَعَلَّتْ: حَلَمَاتُ الضَّرْعِ:
پستان کی بھٹی کا سیاہ ہونا۔ تَفَلَعَلَّ شَعْرًا أَسْوَدًا:
بال کا تخت گھٹکھریالے ہونا۔

الْفَلَعْلُ وَالْفَلَعْلُ: مرچ واحد فَلَعْلَةٌ۔

الْفَلَيْفِظَةُ: ایک قسم کی نباتات ہے جس کی دو
قسمیں ہیں۔ ایک قسم مرچ کی مانند تیز ہوتی اور
دوسری قسم میں تیزی نہیں ہوتی۔

شَرَابٌ مَفْلَعْلٌ تِيزٌ شَرَابٌ وَشَعْرٌ
مَفْلَعْلٌ حَتَّى تَهْتَكِرِيَالِيَالِ بَالِ۔

فَلَقَى (ض) فَلَقًا وَفَلَقَ الشَّيْءَ: پھاڑنا۔

اللَّهُ الضَّبْحُ: رات کی تاریکی دور کرنا اور صُح
ظاہر کرنا۔
أَفْلَقَ الشَّاعِرُ: عجیب کلام کرنا۔ صفت مُفْلِقٌ

بِالْأَمْرِ: باہر ہونا۔
تَفَلَّقَ: پھڑنا۔ دوڑنے میں کوشش کرنا۔
الضَّبْحُ: صُح ہونا۔

الضَّبْحُ: عجیب کام کرنا۔ دوڑنے میں کوشش کرنا۔
إِنْفَلَقَ: پھڑنا۔
الضَّبْحُ: پھاڑنا۔ کاشگاف۔

الضَّبْحُ: فَالِقٌ كَامُوثٌ۔ دو ٹیلوں کے درمیان
پست زمین۔

الضَّبْحُ: مہ پھرن ج فلؤق۔ فلُقُ الزَّاسِ: بانگ۔
الضَّبْحُ: امر عجیب۔ مصیبت۔ آدھا۔
الضَّبْحُ: صُح۔ کل مخلوق۔ اشکال کے بعد حق کی

وضاحت۔ دو ٹیلوں کے درمیان پست زمین۔
دوڑنا۔ پھاڑنا۔ کاشگاف۔
ج فَلَقَانٌ: پیالہ کی تلی کا دودھ۔ بطور سخارت کے

کما جاتا ہے "تَبَايَنَ شَرَابِ الضَّبْحِ" مجرم کو سزا
دینے کی ایک قسم کی کلوی۔ وَالضَّبْحُ مِنَ اللَّبَنِ:
پھڑنا ہوا دودھ ج أَفْلَاقٌ۔

الفلعة۔ پھٹی ہوئی چیز کا آدھا۔ داغ جو اوٹ کے

کان کے نیچے نکالیں۔

الْفَلَعَةُ: کھراج فلغ۔

الْفَلَعَةُ: کھراج فلغ۔

الفلعة۔ پھٹی ہوئی چیز کا آدھا۔ مصیبت ج فلغ۔
الضَّبْحُ وَالضَّبْحُ وَالضَّبْحُ وَالضَّبْحُ:
مصیبت۔ امر عجیب الفلغ: گردن کی امیری
ہوئی رگ۔

الضَّبْحُ: سفید جھوٹ۔ خالص جھوٹ لَبَنٌ
فُلَاقٌ وَفُلُوقٌ: پھڑنا ہوا دودھ۔ کما جاتا ہے "صَارَ
اللَّبَنُ فُلَاقًا وَفُلَاقًا وَأَفْلَاقًا" یعنی تڑھی کی وجہ

سے دودھ پھٹ گیا۔
الضَّبْحُ الضَّبْحُ وَالضَّبْحُ: خشک پھل جو سمجھل
سے جدا ہو گیا ہوا۔

الضَّبْحُ: بڑا لکڑی۔ بڑا آدمی ج فَيَالِقُ زَجَلٌ
فَيَالِقُ: کانا مر۔ اِمْرَأَةٌ فَيَالِقُ: بڑی چالاک شور
مچانے والی عورت۔

الضَّبْحُ: فا۔ ضَاعُو مُفْلِقٌ: عجیب کلام کہنے
والا شاعر۔

الجفلاق۔ ناپسندیدہ افعال کرنے والا مفلس
ج مَفْلِقِيٌّ زَجَلٌ مَفْلَاقٌ: کمینہ و روزیل آدمی۔
الضَّبْحُ: جادو تھی۔

الضَّبْحُ: کان کے میچ داغ لگا ہوا اوٹ۔
فَلَفَحَ مَا فِي الْأَنْبَاءِ: برتن کا کل پی جانا کما
جانا۔

تَفَلَفَحَ إِلَى الْقَوْمِ: خوش خبری دینا۔
الضَّبْحُ: جس کھ۔
الضَّبْحُ: جھیل روی آدمی۔

فَلَفَحَ: فِي الْكَلَامِ أَوِ الْمَشَى: بولنے یا چلنے
میں تیزی کرنا۔
الضَّبْحُ: وسیع۔ فراخ۔

فَلَكٌ (ن) فَلَكًا فَدْنَى الْحَارِبَةِ: لڑکی کی
پستان کا گول ہونا۔
فَلَكْتُ وَفَلَكْتُ الْحَارِبَةَ: گول پستان والی

ہونا۔ صفت فَايَلِكُ ج فَايَلِكُ۔
فَلَكٌ وَفَلَكٌ الضَّبْحُ: پستان کا گول ہونا
الضَّبْحُ فِي الْأَمْرِ: کسی معاملہ میں اصرار

وضع کے لحاظ سے (فوه) ہے۔ اس کا شنیہ فَمَان
فَمَوَان و فَمَیَان اور جمع اَفْوَاه (باعتبار اصل
وضع کے) اور اَفْمَام اور نسبت کے لیے فَمَعُوذِی
و فَمِیَی۔

فَقَّ (ن) فَمَّا الشَّیْ: مزین کرنا
الزَّجَلُ: مشقت میں ڈالنا۔ فَمِیَی النَّبِیِّ:
تعمان رہنا۔ فَمِیَی الدِّیْنِ: قرض کو ٹالنا
الایْلُ: اُونٹ کو دفع کرنا۔ ہانکنا۔

فَقَّنَ: الشَّیْ بِالشَّیْ: ملانا۔ النَّاسِ:
جدا جدا کرنا، جماعت وار کرنا۔ زَانِبٌ: برنگ
برنگ راستے بدلنا۔

تَفَقَّنَ: الشَّیْ بِشَمِّیِّ: قسم ہونا۔ مضطرب ہونا
وَاقْتَنَ فِی الْحَدِیْثِ: اچھے اسلوب
سے بیان کرنا۔ اَفْقَنَ فِی خُصْمُوْتِهِ: قسم قسم کی
باتیں کرنا۔

اِسْتَفَقَّنَ: فَوَسَّه: گھوڑے کو گونا گوں چال
چلانا۔

الْفَقَّ: مہ۔ قسم۔ حال۔ ج۔ اَفْقَان و فُقُون۔ ج۔
اَفْقَانِیْن۔ اَفْقَانِیْنُ الْکَلَامِ: کلام کے مختلف
اسلوب۔ کہا جاتا ہے "لَقِیْتُ مِنْهُ فُقًا" یعنی اس
سے مجھے تکلیف ہوئی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِقٌّ"
یعنی "وہ علم کے ساتھ بصر تعلق رکھنے والا ہے۔"
الْفَقْنُ: سیدھی شاخ۔ ج۔ اَفْقَانِیْنُ ج۔ اَفْقَانِیْنُ۔
الْفَقَّةُ: فن کا مہر۔ مدت۔
الْفَقَّةُ: بہت گھاس۔

شَجَرَةٌ فُقَاء و فُقُوَاء: بہت شاخ والا درخت۔
الْفِقِیَانُ لِبِیِّ بَالِ وَاللَّا: شَعْرٌ فِقِیَانُ: لہجے اچھے
بال۔

الْاَفْقُوْنُ: قسم۔ گنجان۔ شنی۔ ابتداء۔ جوانی۔
ابتداء۔ بارل۔ مضطرب کلام۔ سانپ۔ ج۔ اَفْقَانِیْنُ۔
الجَفْقُ: عجیب عجیب امور کرنے والا۔ مَوْتٌ
مَفْقَةٌ۔

الْمَفْقَةُ: بدخلق بوزھی عورت۔
الْمُتَفَقِّنُ: فا۔ گونا گوں حالات والا۔ گونا گوں
صنعت والا۔

الْفَقَّ: جماعت۔

درمیان میں آنا۔

وَأَفْلَى وَاَفْتَلَى الصَّیْبِ اَوْ الْمُهْرِ: بچے یا
بچیرے سے دودھ چھڑانا۔ الْفَلَامُ: لڑکے
کی پرورش کرنا۔ اِفْتَلَاهُ لِتَنْسِیْہِ: اپنے لیے لینا۔
أَفْلَى الرَّجُلِ: جنگل میں داخل ہونا۔ اَفْلَبْتُ
الْفَرْسَ: بچیرے والی ہونا۔ دودھ چھڑانے کے
قابل بچیرے والی ہونا۔ صفت مُفْلٍ و مُفْلِیَّةٌ۔
الْفِلُو: بچیرا یا گدھے کا بچہ جو دودھ چھڑانے کے
قابل ہو یا جن کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ ج۔ اَفْلَاءُ و
فِلَاءُ۔

الْفَلُوُّ وَاَفْلُوُّ بِمَعْنَى فِلُوْجِ اَفْلَاءُ وِوَفْلَاوِی
مَوْسَمِ جِلْوَةِ فَوَفْلُوَّةٌ۔

الْفَلَاةُ: وسیع بیابان۔ ج۔ فَلَوات و فَلَواتِی و
فَلِی و اور فَلَواتِی جمع اَفْلَاءُ۔

فَلِی یَفْلِی فَلَواتِی الْاَمْرُ: کسی محلہ کے اسباب و
وجوہ پر غور کرنا۔ الشَّعْرُ: شعر میں غور کرنا
اور معانی و غرائب کا استخراج کرنا۔ هُ
بِالسَّیْفِ: تلوار سے مارنا۔ زَبْدًا فِی
عَقْلِهِ: آزمائش کرنا۔ و فَلَی تَفْلِیةٌ زَاوِیةٌ
اَوْ تَوْبِیْہُ: سر یا کپڑے سے جو کس نکالنا۔

فَلِی یَفْلِی فَلَی: الشَّیْ: کتنا۔
فَلِی وَاَفْلَى وَاَفْتَلَى: الْقَوْمُ: درمیان میں آنا۔
أَفْلَى الْقَوْمِ بِعَنْبِهِ: قوم کو غور سے دیکھنا۔
تَفْلِی: سر یا کپڑے میں سے جو کس نکالنا۔
الطَّائِرُ: پرندہ کا چرچ سے پردوں کو کھلانا۔

تَفَالَى وَاِسْتَفَلَى: کسی سے جو کس نکالنے کی
خواہش کرنا۔ تَفَالَتْ النِّسَاءُ: ایک دوسرے کی
جو کس نکالنا۔ الْحُمُرُ: گدھوں کا ایک
دوسرے کو کھانا۔ اِسْتَفَلَاةٌ: تلوار سے سر
پھاڑنے کے درپے ہونا۔

الْفَلَایَةِ: جو کس نکالنا۔
الْفَالِیَةِ: چھری۔ داغ دار گہریا سانپوں کے بلوں
کے قریب رہا کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو
فَالِیةٌ الْاَفَاعِیِ بھی کہتے ہیں۔ فَالِیةٌ الْاَفَاعِیِ: شر
کا پیش خیمہ۔

الْقَمُّ وَاَلْقَمُ وَاَلْقَمُ مِنَ الْاِنْسَانِ: منہ اصل

کرنا۔
تَفَلَّكَ وَاِسْتَفَلَّكَ نَذِی الْجَارِیَةِ: لڑکی کے
پستان کا گول ہونا۔

الْفَلْکُ: آسمان۔ ج۔ فَلَک و فَلَک و اَفْلَاک
وَالْفَلْکُ مِنَ کُلِّ شَیْءٍ: گول اور بڑا مین
الْبَحْرِ: موج۔ ریت کا ٹیلہ جس کے ارد گرد کھلا
میدان ہو۔ زمین کے گول ٹکڑے جو ارد گرد کی
زمین سے بلند ہوں۔ واحد فَلَکَةٌ و فَلَکَةٌ ج
فِلَاکُ۔

الْفَلِکُ: ابھری ہوئی پڑیوں والا۔ سخت جوڑوں
والا۔ جس کے زانو کی چھپی میں درد ہو۔ زَجَلٌ
فَلَکٌ: بڑے سرین والا۔

الْفَلْکِیُّ: فلک کی جانب منسوب۔ عظیم نجوم کا
ماہر۔

الْفَلَکَةُ: فلک کا واحد۔ ہر وہ چیز جو بلند اور گول
ہو۔ ج۔ فَلَک و فَلَکَةُ الْمَغْرَلِ: چرخے کا
دھڑکا۔ ج۔ فَلَک

الْاَفْلَاکُ: گول زمین کے گرد گھومنے والا۔
الْاَفْلِیْکَانُ: حلق کے کوسے کے ارد گرد
گوشت کے دو ٹکڑے۔

الْمَفْلَکُ وَاَلْمَفْلَکُ: مِنَ النِّسَاءِ: گول
پستان والی عورت۔

اَفْقَلِمٌ: اَفْقَلِمٌ: ناک کا ٹالہ۔
الْفِیْلِمُ: بڑے بڑے کامرد۔ چوڑا کتواں۔ سنگھی۔
بزدل۔ بڑی زلفوں والا۔ بہت لشکر۔ دسترخوان کے
نیچے بچانے کا چھرا۔

فَلَانٌ و فَلَانَةٌ ذوی العقول کے علم کا نیا یہ کیا
جاتا ہے اور اس صورت میں ان پر الف لام
داخل نہیں ہوتا اور فَلَانَةٌ غیر منصرف ہے۔ کہا
جاتا ہے جَاءَ فَلَانٌ تَوْبِیْنِ کے ساتھ اور جَاءَتْ
فَلَانَةٌ بغير تَوْبِیْنِ کے اور کبھی غیر ذوی العقول کے
علم سے بھی کیا یہ کیا جاتا ہے اس صورت میں
الف لام داخل ہوتا ہے جیسے زَكَيْتُ الْفَلَانُ و
حَلَبْتُ الْفَلَانَةَ۔

فَلَا یَفْلُو فُلُوًّا وَاَفْلَاءُ: ستر کرنا۔
ہ بِالسَّیْفِ: تلوار سے مارنا۔ الْقَوْمُ:

<p>فَنَائِقُ - فَنَائِقُ وَفَنَائِقُ فَلَانَا عَلَى الْأَمْرِ : طلب کرنا۔ تَفَنَّدِمِنْ كَذَا : تاؤم و پشیمان ہونا۔ الفَنَدُ - مہ - عاجزی - کفرانِ نعمت ج الفناد۔ الفند - بڑا پاڑ۔ الفند - بڑا پاڑ - نشی - نوع - جمع شدہ قوم - زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو۔ ج فَنُوْدُو الْفَنَادُ - کہا جاتا ہے "أَنْزَا الْفَنَادُ" یعنی گروہ گروہ آئے۔ وَأَفْنَادُ الْمَيْلِ : رات کے حصے۔ الْفَنْدُقُ - سرائے ج فَنَادِقُ - بندوق۔ الْفَنْدَاقُ - حساب کار ج سِرَج فَنَادِقِيٌّ۔ الفنار - مشعل - روشنی کا ستارہ۔ ج فَنَارَات۔ الفانائوس - چغل خور - مشعل - لالین۔ ج قَوَائِس۔ فَنَشٌ : یعنی الْأَمْرُ : ست ہونا۔ عَنِ الْأَمْرِ : ترک کرنا۔ الْفِنَاطِس - جہاز میں بیٹھے پانی کا حوض - بیٹھے پانی کے تقسیم کرنے کا پیالہ ج فَنَاطِيس۔ أَنْفٌ وَالْفِنَاطِس - چوڑی تاک۔ الْفِنَاطِيس - کینہ - چوڑی تاک والا۔ تاک جس کے نتھے چوڑے ہوں اور بانسہ پست ہو۔ ج فَنَاطِيس۔ الْفِنَاطِيسَة - سوری تھو تھنی۔ فَيْعٌ (س) لَقْتَعًا - مالدار ہونا - سفت فَيْعٌ وَفَيْعٌ۔ الفَيْعُ - مہ - بست بخشش - فیاضی - ملک کی بزرگ۔ المَيْفَعُ - اچھی شہرت والا - نیک نام۔ فَتَقٌ وَفَاتِقٌ - ناز و نعمت سے ہانا۔ أَفْتَقٌ - سختی کے بعد صاحبِ نعمت ہونا۔ تَفْتَقٌ - الغلام : ناز و نعمت سے زندگی بسر کرنا یعنی الْأَمْرُ : مبالغہ کرنا۔ جَارِيَةٌ فَتَقٌ وَمِفْتَاقٌ - ناز و نعمت میں پبی ہوئی لڑکی۔ الْفَيْتَقِي - نراؤنٹ کہ جس کو بوجہ اس کی شرافت کے نہ تو سواری کے کام میں لائیں اور نہ اس کو تکلیف پہنچائیں ج فَنَتَقِيٌّ ج أَفْتَقٌ۔ الْفَيْتَقِيَّةُ پوری ناز و نعمت میں پبی ہوئی عورت ج</p>	<p>الفَنَاءُ - کثرت۔ الْفَيْئِيلُ - جھوٹے قد کی عورت۔ ہاتھی کی گردن۔ الفُنُقُ - سمان سرائے۔ الفُنُجُ - وہ شخص جس کی صحبت کو لوگ ناپسند کریں۔ الفَنَاجِرَةُ - ماہرین شہ سواری۔ الفُنْجَانُ - چائے پینے کی پیالی ج فَنَاجِينُ۔ الفُنْجَشُ - کشادہ۔ الفُنْجَلُ - وہ شخص جو چلنے میں قدم کا اگلا حصہ قریب اور ایزی دور رکھے۔ الفُنْجَلُ - سیاہ گوش۔ فَنَجَةٌ (ن) فَنَجًا وَفَنَجَةً - غالب ہونا۔ ذیل کرنا۔ فَنَجٌ عَظْمَةٌ - بغیر خون نکلے ہوئے ہڈی کو چورہ کرنا۔ فَنَجَةٌ فَنَجًا وَفَنُوجًا - خوب اچھی طرح تل کرنا۔ أَفْنَجٌ زَانِسَةٌ - چکنا۔ تَفْنَجَةٌ - مقبور کرنا۔ بست بڑی طرح سے ذیل کرنا۔ الْفَيْئِخُ - نرم و کمزور بڑھا۔ المَيْفَعُ - دشمنوں کو بست ذیل کرنے والا۔ ان کے سروں کو بست توڑنے والا۔ فَنَجَوٌ فَنَجَوَةٌ - نتھے پھلانا۔ الْفَنَاجِي - بڑی تاک والا () وَالْفَنَاجِي بڑے ذیل ڈول والا مَوْنُتُ فَنَاجِيَةٌ وَفَنَجَوَةٌ۔ الْفَيْئِجِيَّةُ - بست نخر کرنے والا۔ فَيْدٌ (س) فَنَدًا وَفَنَدًا - کھوسٹ ہونا۔ بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہونا۔ جھوٹ بولنا یعنی الرأى او القول : خطا کرنا۔ أَفْنَدَهُ : خطا کار ٹھہرانا۔ أَفْنَدَهُ الْكِبِيرُ : بڑھاپے کا کسی کو ضعیف العقل کر دینا۔ فَنَدَةٌ - جھٹلانا۔ ملامت کرنا۔ خطا کار ٹھہرانا۔ ضعیف العقل بنانا۔ فَنَدٌ فِي الشَّرَابِ : مدامت کرنا۔ الْفَرَسُ : گھوڑے کو ڈبلا کرنا۔ چھریا بنانا۔</p>
--	---

درماندہ عاجز ہوتا۔ صفت فہ و فہیۃ۔

فہس فہا الشی وعین الشی: بھولنا۔

فہہ وافہ اللہ الرجل: عاجز کرنا۔ افہہ الشی: بھولوانا۔

الفہۃ: مؤنث فہ۔ عاجزی۔ غفلت۔

فہد (س) فہدا: تیردے جیسا ہوتا۔ صفت فہدو فہدہ: فہد عتہ: غافل ہونا۔

فہد (ف) فہد فلان: کسی کے کام کو اس کی غیر موجودگی میں اچھا کرنا۔

الفہد: تیرداج فہدو افہد۔

الفہدۃ: بارہ تیرداج فہدات۔ ذر۔

الفہاد: تیردے والا۔ تیردے کو شکار کھانے والا۔

الفوہد: موٹا تازہ قریب البلوغ لڑکا۔ مؤنث فوہدۃ۔

الافہود: بمعنی فوہد ج افہید۔

فہز القوس او الرجل: تھک جانا۔

افہز: بیویوں کی عید میں شریک ہونا۔

زید: موٹائی کی وجہ سے سلوت والا ہونا۔

تفہز: فی المال والکلام: وسعت ہونا۔

الفہر: عند الاطبایہ: دوا پینے کا پتھر ج

افہارو فہور۔

الفہرۃ: بمعنی الفہر۔

المفہر: سینہ کا گوشت۔

الفہرس والفہرست کتاب جس میں کتابوں کے نام جمع کئے جائیں۔ کتاب کے اول یا

آخر میں چند اوراق جس میں کتاب کے ابواب و فصول بیان کر دیے جائیں۔ ج فہارس۔

فہضہ (ف) فہضنا: تڑنا۔ چلنا۔

فہق (ف) فہقا: الرجل: چیر گرون پر مارنا۔

فہق (س) فہقا وفہقا: الإناء: برتن کا لبریز ہو کر چمکنا۔

افہق: الإناء: برتن کو بھرنا۔ البزق

وغیرہ: بجلی وغیرہ کا پھیل کر چمکنا۔

تفہق وانفہق الحوض بالماء: حوض کا پانی سے چمکنا۔ البزق وغیرہ: بجلی وغیرہ

کا پھیل کر چمکنا۔

الفقہۃ: گردن کے جڑ کی بڑی۔ ج فہاق۔

الفاہقۃ: زخم جس سے خون جاری ہو۔ بزیو مفہاق: بہت پانی والا تھوڑا۔

المفہق: کشادہ۔

الفیق: کشادہ بہت دودھ والی اونٹنی۔

فہم (س) فہما وفہما وفہامۃ وفہامۃ وفہامیۃ: سمجھنا۔

فہمئو افہمئہ: سمجھنا۔

تفہم: الکلام: تھوڑا تھوڑا سمجھنا۔

تفاهم: القوم: بعض کا بعض سے سمجھنا۔

استفہمۃ الأمر: دریافت کرنا۔ سمجھانے کے لئے کرنا۔

الفہم: ہم۔ سمجھ۔ کسی چیز کا تصور۔

الفہم: تیز سمجھ دار۔

الفہامۃ: بہت سمجھنے والا۔ تاثر مانگہ کیلئے ہے۔

الفہیم: سمجھ دار۔ ج فہم۔ فہما

(ن) فہو: عن الأمر: بھولنا۔

الافہاء: بیوقوف لوگ۔

فوف: وہ کا مارہ دیکھئے۔

فأت تفوت فواتا وفواتا الأمر: گزرنا۔ وقت جاتا رہنا۔ الأمر: حاصل کرنے میں ناکام رہنا

_____ ء فلان فی کذا: آگے بڑھ جانا

الشی: تجاؤز کرنا۔

أفأتہ أفاتہ الأمر: گزرنے دینا

تفوت علیہ فی مالہ: غلبہ کرنا۔

تفاوت تفاوتا وتفاوتا وتفاوتا الشیطان: مختلف ہونا۔ ذور ذور ہونا۔

تفاوتا فی الفضل: فضل و کمال میں مختلف ہونا۔

إفئات الکلام: بچی گفتگو کرنا۔ بزویہ: خود را کرنا۔ پامرہ: کرگزرتا اور مشورہ نہ

کرنا۔

_____ علی فلان فی الأمر: حکم کرنا۔ فیصلہ کرنا۔

_____ ء الأمر: فوت ہونا۔ کہا جاتا ہے "فلان لا یفتات علیہ" فلاں کی اجازت کے بغیر کوئی کام

نہیں کیا جاتا۔

الفوت: ہم۔ دو انگلیوں کے درمیان کشادگی ج افوات: کہا جاتا ہے "جعل اللہ رزقہ فوت

قیمہ" یعنی اللہ نے اس کے رزق کو ایسا بتایا ہے کہ وہ دیکھا ہے اور اس تک پہنچتا نہیں۔

الفوات: ہمہ موت افوات: اجناک موت۔ الفوت: خود رائے جو کسی سے مشورہ نہ

کرے۔ (مذکر و مؤنث)

فأج یفوق فوجا: الممسک: مسک کی خوشبو کا بھڑکنا۔ التفاز: دن کا ٹھنڈا ہونا۔

فؤج: عن نفسہ: ٹھنڈا کرنا۔

أفاج الرجل: جلدی کرنا۔ القوس: گھوڑے کا ڈوڑنا۔

أستفیح: ہلکا سمجھانا۔ ذلیل سمجھانا۔

الفوج: جماعت۔ گروہ۔ ج افواج وفوج و ج افارج و افایج و افانوج۔

الفایجۃ: جماعت۔ ریت یا سخت زمین کے دو نیلوں کے درمیان کشادگی۔

فأخت تفوخ فوخا وفوخا وفوخانا القدر: ہانڈی کا جوش مارنا۔ الشجۃ: زخم کا خون پھینکانا۔ فأح وتفأوح الزہر: پھول

کا مسکنا۔ خوشبو بھڑکنا۔ فأح الممسک او الطیب: مسک یا خوشبو کا بھڑکنا۔

أفأح: الدم: خون گراننا۔ القدر: ہانڈی کو جوش دینا۔

فؤح الحرق: گرمی کی شدت۔

فأخت تفوخ فوخا: الریح: ہوا کا چلنا اور آواز لگانا۔

فأح وأفأح: الرجل: گوز کرنا۔ أفأح الریق: مسک کا منہ کھول کر ہوا لگانا۔

فأد یفؤد فؤدا: مرنا۔ الشی بالشی: مانا۔ المال لفلان: ثابت ہونا۔ اور اسم اس سے الفایذۃ ہے۔

أفأد إفأذۃ الرجل: مارنا۔ ہلاک کرنا۔ أفأد و فلان المال جمع کرنا۔ کمانی کرنا۔ فلاننا مالا او علما: دینا یا نفع پہنچانا۔

الفَلَمَاءُ: علمی مسائل کا ذکر۔
 فَوْظَةٌ: ازارہ ستا۔
 الفَوْظَةُ: ازار جس کو خدام استعمال کرتے ہیں
 ج فَوْظُ اور عوام کے نزدیک رومل کو کہتے ہیں۔
 فَاظٌ يَفْظُ فَوْظًا و فَوْظًا مَرَاتًا: کہا جاتا ہے
 ”حَنَانٌ فَوْظَةٌ“ یعنی اس کی موت کا وقت آیا۔
 الفَوْظَةُ مِنَ الطَّيِّبِ: خوشبو۔
 مِنَ السَّيِّئِ: زہر کی تیزی _____ مِنَ
 الشَّبَابِ: جوانی کی ابتداء۔
 فَاغٌ يَفْغُغُ فَوْغًا طَيِّبًا: خوشبو بھرتا۔
 مَسَكًا۔
 الفَوْغَةُ مِنَ الطَّيِّبِ: خوشبو کی بھڑک۔
 الفَايغَةُ: تیز خوشبو جو ناک کو بھر دے۔
 الفَوْغُ: منہ کی موٹائی۔
 الْأَفْوَعُ: موٹے منہ والا۔ کہا جاتا ہے فَمِعَ
 أَفْوَعٌ: موٹا منہ ”وَرَجُلٌ أَفْوَعٌ“ موٹے منہ والا
 مرد۔
 فَافٌ يَفْؤُفُ فَوْفًا: اٹھنے اور شہادت کی
 اُتگی کے تاخوں کو ملا کر سائل کو کچھ نہ دینے کا
 اشارہ کرتا۔
 الْفَوْفُ وَالْفَوْفُ: گائے تیل کا مٹانہ۔ جوانوں
 کے تاخوں کی سفیدی۔ واحد فَوْفَةٌ وَفَوْفَةٌ ج
 أَفْوَافٌ۔
 الْفَوْفُ وَالْفَوْفَةُ: دانہ کا چمکا۔
 ثَوْبٌ أَفْوَافٌ وَثَوْبٌ مَقْوَفٌ بَارِيكٌ كِبْرًا:
 سفید دھاری دار کپڑا۔
 فَاقٌ يَفْؤُقُ فَوْقًا وَفَوْاقًا الشَّيْءَ: بلند ہوتا۔
 _____ أَصْحَابُهُ بِالْفَضْلِ او الْعِلْمِ: بڑھ جاتا۔
 سبقت لے جاتا۔
 فَوْاقًا بَعْلِي أَنَا (_____ فَوْاقًا وَفَوْقًا)
 الرَّجُلُ: قریب المرگ ہونا یا مرنا (_____ فَوْقًا):
 السَّهْمُ: سونار تیر کو توڑنا الشَّيْءَ: توڑنا۔
 فَاقٌ يَفْاقُ وَفَوْقٌ يَفْؤُقُ فَاقًا وَفَوْقًا وَفَوْقًا:
 السَّهْمُ: سونار میں بگی ہوتا۔
 فَوْقَةٌ عَلَى قَوْمِهِ! نعتیل دینا۔ فَوْقٌ
 السَّهْمُ: سونار لگانا _____ الْقَصِيلُ: مہلت

بھڑکا۔
 الْفَوْازَةُ: ہانڈی کا اُبل۔
 الْفَوَّارُ: اسم مبالغہ۔
 الْفَيْئُورُ: بہت جلدی غضبناک ہونے والا۔
 الْفَوَّازَةُ: سُونٹ فَوَّارِ: پانی کا چشمہ۔ فوارہ۔
 فَازٌ يَفْؤُزُ فَوْزًا: بِالْأَمْرِ: کامیاب ہونا _____
 مِنَ الْمَكْرُوهُ: نجات پانا _____ الرَّجُلُ: ہلاک
 ہوتا۔ مرنا۔
 فَوْزٌ تَفْؤُزُ الرَّجُلُ: گزرتا۔ مرنا _____
 الظَّرِيفِيُّ: ظاہر ہونا _____ التَّوَاعِي بِأَيْلِهِ:
 چرواہے کا اونٹوں کے ساتھ جنگل طے کرتا۔
 _____ وَ تَفْؤُزٌ أَيْكَ نَلِكٌ سِے دوسرے نلک میں
 جاتا۔
 أَفَازٌ فَلَانًا بَكْدًا: کامیاب کرانا۔
 الْفَازَةُ وَ دُكْمِيوُنِ وَالْأَجْرُ: کہا جاتا ہے ”حَضْرَبَ
 الْفَازَةَ وَبِالْمَقَارَةِ“ اس نے بیابان میں شہد لگایا۔
 الْمَقَارَةُ: نجات۔ کامیابی۔ ہلاکت۔ بیابان جس
 میں پانی نہ ہو ج مَقَارَاتٌ وَ مَقَاوِزُ۔
 فَوْضٌ تَفْؤُضًا: إِلَيْهِ الْأَمْرُ: سپرد کر دینا۔
 _____ الْمَرْؤَةُ: بغیر مہر کے نکاح کر دینا۔
 فَأَوْضَةٌ مَفَاوِضَةٌ فِي الْأَمْرِ: برابر ہونا۔ شریک
 ہونا۔ اہم بات چیت کرتا۔
 تَفَاوَضَ الْقَوْمُ فِي كَذَا: بعض کا بعض کے
 ساتھ شریک ہونا _____ الشَّرِيكَانِ فِي الْمَالِ
 شَرِيكٌ ہونا اور برابر ہونا تَفَاوَضُوا فِي
 الْحَدِيثِ: بات چیت میں مشغول ہونا۔ کہا جاتا
 ہے قَوْمٌ فَوْضِي أَيْسَى قَوْمٌ جِسْ فِي سَبِّ بَرَابِرِ هُوُنِ
 اور ان کا کوئی رکھیں نہ ہو ”وَ أَمْرُهُمْ فَوْضِي
 يَنْتَهُمُ وَ فَوْضُضِي وَ فَوْضُضَاءٌ“ ان کا معاملہ
 مختلط ہے۔ ہر ایک تصرف کا حق رکھتا ہے
 ”أَمْوَالُهُمْ فَوْضِي يَنْتَهُمُ وَ فَوْضُضِي وَ
 فَوْضُضَاءٌ“ وہ سب مال میں برابر کے شریک
 ہیں کوئی فرق نہیں۔ کہا جاتا ہے شِرْكَةٌ مَفَاوِضَةٌ
 وَ شِرْكَةٌ مَفَاوِضَةٌ وَ شِرْكَةٌ جِسْ فِي شِرْكَاءِ مَالٍ
 اور تصرف اور دین کے لحاظ سے برابر ہوں اور
 اس کے مقابلہ میں شرکت عثمان ہے وَ مَفَاوِضَةٌ

تَفْؤُذٌ: الْوَعْلُ فَوْقَ الْجَبَلِ: پہاڑی بکری کا
 پہاڑ چرنا۔
 اِسْتَفَاذَةٌ: حاصل کرنا۔
 الْفَوْذُ: مہ۔ کینٹی۔ کینٹی کے بال۔ کہا جاتا ہے
 ”يَبْدَأُ الشَّيْبُ بِفَوْذِيهِ“ یعنی اس کی دونوں
 کینٹیاں سفید ہو گئیں۔ الْفَوْذُ: بڑا تھیلا۔ بوری۔
 فَوْجٌ: کنارہ۔ فود الْحَبَاءُ او الْوَادِي: خیمہ یا
 وادی کا کنارہ ج افواد۔
 الْمِفْؤَادُ: تلف کرنے والا۔
 الْفَوْذُ ج: بروج۔ ذہن کی پاکلی۔
 فَارَتْ تَفْؤُزُ فَوْزًا وَ فَوْزًا وَ فَوْزًا: الْقَيْدُ:
 ہانڈی کا جوش مارنا۔ اُبلنا۔ فَارَ الْمَاءُ: پانی کا زمین
 سے نکلنا اور بہنا _____ الْعَرْقُ: رگ کا
 مضرب ہونا (_____ فَوْازًا وَ فَوْازَاتًا
 الْمِسْلُكُ): خوشبو کا بھڑکنا۔
 فَوْزًا وَ أَفَازَ: الْقَيْدُ: ہانڈی کو جوش دینا۔
 _____ فَارَ الْمِيْزَانِ: ترازو کے ڈبان کے ادھر
 ادھر کے لوہے بنانا۔
 الْفَارُ: چوہا۔ واحد فَارَةٌ۔ فَارَةٌ الْإِبِلُ: کھال
 کے ترہو جانے کے بعد کی بو۔
 الْفَوْرُ: مہ۔ جلدی۔ کہا جاتا ہے ”رَجَعَ مِنْ
 فَوْرِهِ“ جلدی واپس ہوا۔ فَوْزٌ كَلْبٌ شَيْءٌ: ہر چیز کا
 ازل۔
 الْفَوْرُ: ہرنیاں۔ واحد فَائِرٌ۔ کہا جاتا ہے ”لَا
 أَفْعَلُهُ مَالًا لِأَلَاتِ الْفَوْرُ“ میں اس کو نہیں کروں گا
 جب تک ہرنیاں اپنی ذم ہلاقی رہیں گی یعنی کبھی
 نہیں کروں گا۔
 الْفَوْزَةُ مِنَ الْحَرِّ او الْعَصَبِ: گرمی یا غصہ
 کی تیزی۔ فَوْزَةُ النَّهَارِ: دن کی ابتداء۔ فَوْزَةُ
 النَّاسِ: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔
 فَوْزَةُ الْعِشَاءِ: عشاء کی نماز کے بعد کا وقت۔ کہا
 جاتا ہے ”أَخَذْتُ الشَّيْءَ بِفَوْزِيهِ“ میں نے چیز کو
 اس کی ابتداء ہی میں لے لیا۔
 الْفِيْزَانُ: ترازو کے ڈبان کے ادھر ادھر کے
 وہے۔
 الْفَائِرُ: فا۔ کہا جاتا ہے ”فَارَ فَائِرُهُ“ اس کا غصہ

دے دے کے دودھ پانا۔

أَفَاقٌ إِفَاقَةٌ مِنْ مَرَضٍ : صحت یاب ہونا۔

_____ الحَالِبُ : دودھ کے دوہنے کے بیچ میں

آرام لینا۔ أَفَاقَتِ النَّاقَةُ : تھن میں دودھ جمع

ہونا۔ صَفْتٌ مُفِيقٌ وَ مُفِيقَةٌ جُ مَقَاوِيقٌ وَ مُفِيقٌ

_____ السُّكْرَانُ مِنْ سُكْرِهِ : ہوش میں آنا۔

مِنْ النَّوْمِ : بیدار ہونا _____ الْمَجْنُونُ مِنْ

جُنُونِهِ : ہوشیار ہونا _____ الزَّمَانُ عَنكَلِي كَالْحَبْلِ

بَعْدَ فِرَاشِي أَنَا _____ عِنْدَ النَّعَاشِ : نیند کا چٹ

جاننا میں غفلت ہے، چونکہ ہوتا ہے _____ وَأَفْوَقِي الْفَوْقَا

وَأَفْوَقِي الْبِقَافَا السَّهْمُ : تانت پر سوار رکھنا۔

تَفْوُوقُ الشَّرَابِ : تھوڑا تھوڑا کر کے پینا۔

عَلَى قَوْهِهِ بِلَدٍ ہونا _____ النَّاقَةُ : دوہنے کے

بعد مہلت دے کر روہنا _____ الْفَصِيلُ :

مہلت دے کر دودھ پینا _____ مَالَةٌ : ٹھہر ٹھہر

کے خرچ کرنا۔

إِنْفَاقٌ إِنْفِيقًا : السَّهْمُ : سوار ٹوٹنا۔

_____ الْعَجْمَلُ : اونٹ کا لاغر ہونا اور ہلاک

ہونا۔

إِفْتِاقُ الرَّجُلِ : محتاج ہونا۔ فقیر ہونا۔

إِسْتِفَاقُ الرَّجُلِ مِنْ نَوْمِهِ أَوْ مَوْضِعِهِ أَوْ

عَقْلِيَّةٍ : بمعنی افاق _____ النَّاقَةُ : اونٹنی کو

دوہنے کے بعد مہلت دے کر دوہنا۔

الْفَاقُ : کمانے سے بھرا ہوا بڑا پالہ۔ جھگل۔

سنگھسا۔ بے قد کا مرد۔ بسی گردن کا ایک دریائی

جانور۔

الْفَاقَةُ : حاجت۔ فقر۔ محتاجی۔

فَوْقُ مَهٍ - اوپر۔ اور یہ طرف مکان ہے اور کبھی

زمانہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے أَقَمْتُ

فَوْقَ شَهْرٍ اور کبھی زیادتی اور فضل پر دلالت

کرتا ہے جیسے الْعَشْرَةُ فَوْقَ الْبِشْعَةِ "وہذا

فَوْقُ ذَلِكَ" اور کبھی بطور اسم کے استعمال ہوتا

ہے۔ كَفْوَلِهِ - وَإِذَا كَثُرَتْ فَكُلُّ فَوْقٍ ذُوْنُ

الْفَوْقَانِي - اوپر والا۔ اعلیٰ۔ نقیض۔ محتاجی۔

الْفَوْقُ : سوار۔ ج۔ فوق و أفوق۔ ڈبلن کا

کنارہ۔ پہلا راستہ۔ کہا جاتا ہے "مَا أَزْدَدَ عَلَيَّ

فَوْقِهِ" یعنی گیا اور لوٹا نہیں وَلَهُ مِنْ كَذَا سَهْمٌ

ذُو فَوْقٍ یعنی وہ ان میں سے اکثر حصے والا ہے۔

الْفَوْقُ : سوار میں کچی۔

الْفَوْقَةُ : سوار ج۔ فوق و فُوقًا۔

الْفَيْقَةُ۔

دودھ جو دودھ دوہنے کے درمیان میں تھن میں

جمع ہو جائے۔ الْفَيْقَةُ مِنَ اللَّيْلِ : رات کا اکثر

حصہ۔ فَيْقَةُ الضُّحَى : چاشت کی ابتداء ج۔ فَيْقٌ

وَفَيْقٌ وَفَيْقَاتٌ وَفَوَاقٌ وَأَفَاقِيُقٌ - تم کہتے ہو

"أَزْصَعْنِي أَفَادِيُقِي بَرَه" اس نے میرے ساتھ

بہترین احسانات کے الافاویق پائی جو ہول میں

جمع ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا بر سے۔

الْفَوَاقُ وَالْفَوَاقِيُقُ - مہ - دودھ دوہنے کے

درمیان کا وقت۔ دوہنے والے کے ہاتھ کے بند

کرنے اور کھولنے کے درمیان کا وقت۔ اور اسی

سے ان کا قول ہے۔ "أَمْهَلْنِي قَدَّرَ فَوْاقٍ

حَالِبٍ" یعنی مجھے ذرا سی مہلت دو "وَلَهُ مِنْ كَذَا

سَهْمٌ ذُو فَوْاقٍ" اس کیلئے فلاں چیز سے حصہ کامل

ہے۔ الْفَوَاقُ : جاگتی کے وقت کی بھگی ج۔ الْفَوْقَةُ

وَ أَفَاقَةٌ وَ جُ أَفَوَاقَاتُ - الْفَوَاقُ : اسم ہے أَفَاقٌ

وَ اسْتِفَاقُ الْعَلِيلِ سے جبکہ وہ لاغر ہو جائے۔

الْفَائِقُ - فا۔ برگزیدہ۔ عمدہ خالص ہر چیز کا ج

فائزون و فوقہ۔ الفائق : سر اور گردن کی جوڑی

جگہ۔

السَّهْمُ الْأَفْوَقِيُّ : تیر جس کا سوار ٹوٹ گیا ہو۔

شَاعِرٌ مُفِيقٌ - شاعر بلخ۔

طَعَامٌ مُفَوَّقٌ : کھانا جو تھوڑا تھوڑا لیا جائے۔

الْفَوَّلُ - لوبیا۔

الْفَوَالُ لُوبِيَا يَبِيحُ وَاللُّوبِيَا يَكْنَى وَاللَّ-

فَوْمٌ - روٹی پکانا۔

الْفَوْمُ - لسن۔ گیسوں۔ چنا۔ روٹی۔ بڑا لقمہ۔ کل وہ

تھے جن کی روٹی پک سکے ج۔ فومان۔

الْفَوْمَةُ - فوم کا واحد۔ خوش۔ چنگلی جو دو اقلیوں

کے درمیان لی جائے۔ ج۔ فوم۔

الْفَائِسِيُّ - سبزی فروش۔

فَاءٌ يَفْوُهُ فَوْهَا وَ تَفْوُهُ - بکڈنا۔ بولنا۔ وَ تَفْوَةُ

السَّكَّانُ : دہانہ میں داخل ہونا۔

فَوْهَةٌ (س) فَوْهَا - فرخ دہن ہونا۔

فَوْهَةٌ - فرخ دہن ہونا۔

فَاوَةٌ مَفَاوَهُةٌ وَ فَاهِيَةٌ مَفَاهَاةٌ فَلَانًا : منگھو

کرنا۔ مفاخرت کرنا۔

تَفَاوَةُ الْقَوْمِ بِكَذَا : آپس میں منگھو کرنا۔

اسْتَفَاهَا اسْتِفَاهًا وَ اسْتِفَاهَةً كِي كَيْ بَعْدَ

بست کھانا پینا۔

الْفُوهُ الْفَاهُ وَالْفِيهِ مَسْرُجُ الْفَوَاهِ

فوا اسمائے ست کبیرہ میں سے ایک ہے اس کا

اعراب حالت رفعی میں داد اور حالت نصبی میں

الف اور حالت جری میں یا کے ساتھ آتا ہے۔

بشرطیکہ مفرد ہو اور یاء متکلم کے علاوہ کسی

دوسرے اسم کی طرف اضافت ہو۔ تم کو گے

سَقَطَ لَفِيهِ یعنی وہ اپنے منہ کے بل گرا۔ و

"كَلَّمْتُهُ فَاءً إِلَى فَيْ" یعنی میں نے اس سے رو

ر در رو منگھو کی قلم حایت کی بنا پر منصوب ہے اور

ابتداء نسبت کی بنا پر اس کا مرفوع پڑھنا صحیحی جائز ہے۔

اس صورت میں جملہ حال واقع ہوگا۔ جیسے

كَلَّمْتُهُ فَوْهًا إِلَى فَيْ

الْفُوهِةُ - فوہ کی تعریف چھوٹا منہ۔

الْفَوْهَةُ - منہ کی کشادگی۔ دانتوں کا ہونٹ سے

نکلنا۔

الْفَوْهُ وَالْفَوْهَةُ - ایک درخت کی جڑیں جو سرخ

رنگ کی ہوتی ہیں اور لگائی کے کام میں آتی ہیں

اور بعض امراض میں دواء اس کا استعمال ہوتا

ہے۔

الْفَوْهَةُ فَاهٌ كَالْمِرَّةِ - منہ۔

الْفَوْهَةُ - مِنَ الْوَادِي وَالْمَطْرِيقُ وَ جَبَلِي

النَّارِ : وادی یا راستہ یا آتش فشاں پہاڑ کا دہانہ ج

فَوْهَاتٌ۔

الْفِيهِ - بست بولنے والا۔ بلخ۔ بست کھانے والا۔

مَوْزَنَةٌ فَيْقَةٌ۔

الْفَوْهَةُ - اَوَّلُ شَيْءٍ _____ مِنَ الْمَطْرِيقِ

وَالْوَادِي وَ جَبَلِي النَّارِ - راستہ یا وادی یا آتش

فشاں پہاڑ کا دہانہ۔ ج۔ فَوْهَاتٌ وَالْفَوَاهِ فَوَاهِيَةٌ۔

اور غارت لوٹ ڈالنے والے گھوڑوں کو کہتے ہیں۔

الفیاض اسم مبالغہ۔ فیاض۔ یعنی فیاض بہت وسیع سمندر۔ زجل فیاض۔ فیاض۔ بڑا دیا لومرد۔ مؤنث فیاضة۔

الافیض۔ کشادہ۔ مؤنث فیضاء۔ ج فیض الفیضاء۔ وسیع مکان۔ بصرہ۔ دمشق اور طرابلس شام کا لقب۔

فاخ یفیح فیضاً و فیضاً۔ یعنی فاخ یفوح وادی۔

فأذ یفید فیداً۔ مرنا۔ المال لہ ثابت ہو اور بعضوں نے کہا ہے۔ جاتا رہنا۔ فادت لہ فائدة۔ حاصل ہونا (و یفید الرجل ناز سے چلنا۔ فید۔ اولیٰ آواز سے بدقالی لہنا۔ فأذ افادۃ۔ الرجل یعلما او مالا۔ فائدہ پہنچانا۔

الرجل۔ مار ڈالنا۔ الجوز۔ فزج کرنا۔ (و استفاد منه یعلما او مالا۔ حاصل کرنا۔

تفایذ القوم بالمال۔ ہر ایک کا دوسرے کو فائدہ پہنچانا۔

تفید الرجل ناز سے چلنا۔ الفید۔ مہ۔ زعفران کی بیجی۔

الفائدة۔ زیادتی جو انسان کو حاصل ہو۔ علم یا مال وغیرہ سے انسان کو حاصل کرے ج فوائد۔

القیاد۔ نر اول۔ والقیادۃ ناز سے ملنے والا۔ کہا جاتا ہے "هو یمشی علی الارض قیاداً میناداً" وہ زمین پر ناز سے آگڑا ہوا چلتا ہے۔

الغیروز والغیروز والغیروز ج۔ ایک قسم کا تیشی پتھر۔

فاش یفیش فیشاً۔ فخر کرنا۔ تکبر کرنا۔ صفت فائش۔

فیش عن الامر۔ بزدلی کرنا۔ چھپے ہونا۔ فائشۃ فیشاً ومفاشاة۔ مفاخرت کرنا۔

فائش الرجل۔ لڑائی میں ڈیک مارنا اور فضول

الشجرۃ و فی الشجرۃ۔ درخت کا سایہ لینا۔ سایہ ڈھونڈنا۔ الأختار۔ خبر کی سن گن لینا۔

کما جاتا ہے تفیاً بقیبہ۔ سایہ میں پناہ لینا۔ استنقاء استنقاء۔ لوٹنا۔ المال۔ مال غنیمت لینا۔ الأختار۔ خبر کی سن گن لینا۔

القیء۔ مہ۔ سایہ۔ غنیمت۔ خراج اقیاء و قیوء۔ القیء۔ پرندوں کی ایک کڑی۔

القیبۃ۔ فاء کلام مرہ۔ لوٹنا۔ وقت۔ القیبۃ۔ فاء کلام نوع۔ کہا جاتا ہے "انہ حسن القیبۃ" وہ بھر واپس والا ہے۔ کہا جاتا ہے دخل علی (قیبۃ) فلان یعنی فلان کے نشان قدم پر داخل ہوا۔

المغفاء۔ افاء کلام مفعول۔ المغفایۃ و المغفیوۃ وہ جگہ جہاں دھوپ نہ ہو۔ سایہ دار جگہ۔

أفاح۔ فی عدوہ۔ دوڑنے میں دیر کرنا۔ القوم فی الارض۔ ملک میں پھیل جانا۔

الفیج۔ پیک۔ ایلچی۔ ہر کارہ۔ خادم۔ لوگوں کی جماعت۔ پست زمین۔ ج فیوج۔

القائیخۃ۔ دو پہاڑوں کے درمیان وادی۔ ج فوائج۔

فاخ یفیح فیضاً و فیضاً۔ الحار۔ گرمی کا تیز ہونا۔ فاحت القدر۔ ہانڈی کا جوش مارنا (و فیضاً و فیوضاً) الزینغ۔ سرسبز ہونا۔ الدم۔ خون گرنے۔ الشحۃ۔ زخم کا بہت خون بہانا۔

فاخ یفیح و فاح یفاح فیضاً۔ کشادہ ہونا۔ فاحت الغارۃ۔ وسیع ہونا۔ منتشر ہونا۔

فیج۔ الشق۔ بکھیرنا۔ متفرق کرنا اور اسی سے ہے "لو ملکک الدنیا یفحکھا فی یوم واحد" اگر تم دنیا کے مالک ہو جاؤ گے تو ایک ہی دن میں بکھیر دو گے۔

أفاح القدر۔ جوش دینا۔ الدماء۔ خون بہانا۔

الفتح و الفتح۔ کشادگی۔

فیاح۔ اسم ہے غارت کا۔ کہا جاتا ہے "لیحی فیاح" یعنی اسے غارت پھیل جا اور منتشر ہو جا۔

القوۃ۔ مسالے۔ خوشبو کی ذریاں۔ تسمیں۔ ج افواہ و واحد قوۃ۔

المقوۃ۔ بڑا بولنے والا۔ الخ۔ کہا جاتا ہے خطیب مقوۃ۔ شراب مقوۃ۔ خوشبو ملی ہوئی شراب (و المقوۃ) وہ سے رنگا ہوا۔ دیکھئے القوۃ۔

القوۃ۔ ایک قسم کی نباتات ہے جس سے وجع الجنب اور داء الثعلب کا علاج کرتے ہیں ارض (مقوۃ) زمین جس میں قوۃ بہت ہو۔ (دیکھئے القوۃ)

فی حرف جر۔ معالیٰ ذیل پر ولالت کرتا ہے (۱) معرفت جیسے الحفر فی الزق (۲) مصاحبت جیسے جاء فی القوم۔ فمت فی شروق الشمس (۳) تغلیل جیسے قیل فی ذنبہ (۴) متابہ جیسے ما علمین فی بحرہ الأقطرۃ (۵) اسمعلاء جیسے اصابکتم فی جزوع النخل (۶) یعنی باجیسے انت بصیر فی عملک یعنی اہلی جیسے ردیدہ فی حیبہ یعنی من جیسے مضت علی ثلاثۃ أشهر فی ثلاث سنین۔

فأیضاً فینا لوٹنا۔ سایہ کا بہت جانا۔ الغنیمۃ۔ غنیمت حاصل کرنا۔ (و فینا و فیئنا) الامر۔ لوٹ آنا۔

فیاً تفیۃ الشجر۔ درخت کا سایہ دار ہونا۔

قیات الریاح الغضون۔ ہوا کا ٹیوں کو بلانا۔

أفاء افاء۔ الظل۔ سایہ کا لوٹنا۔ ہالی کذا۔ لوٹنا۔ أفاء اللہ علیہ مال القوم۔ مال غنیمت حاصل کر دینا۔

دیوسری قوم سے مال غنیمت حاصل کر کے دینا۔

تفیاً تفیوا۔ الظل۔ سایہ کا پلٹنا۔

فیض

فیل

فیل

۶۲۳

دھمکی دینا۔

تَفَيْشُ - الْأَمْرُ: لغو دعویٰ کرنا۔ عَنَّةٌ: عاجزی سے پلٹ جانا۔

تَفَايِشُ - الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔
الْفَيْشَاءُ: بہت فضیلت والا سردار۔ فخر کرنے والا۔

الْفَيْوُشُ: فخر کرنے والا۔ بزدل۔ کمزور۔

فَاضٌ يَفِيضُ فَيْضًا فِي الْأَرْضِ: جانا۔

وَمَنْهُ: بہت جانا۔ اور کہا جاتا ہے "مَا فَضْتُ

أَفْعُلُ" یعنی بیشہ کرتا رہوں گا۔ فَاضَةٌ جِدَا: ہونا۔

أَفَاضَ: الْكَلَامَ: ظاہر کرنا۔ أَفَاضَتْ يَدُهُ:

اُتْلِكِيوں کو کسی چیز کے پکڑنے سے عاجز رہنا۔ کہا

جاتا ہے مَا لَكَ عَنَّا (مَفِيضٌ) تمہارے لئے کوئی

شے کی جگہ نہیں۔

فَاضٌ يَفِيضُ فَيْضًا وَفَيْضَانًا وَفَيْضًا وَ

فَيْضًا وَفَيْضًا وَفَيْضًا وَفَيْضًا السَّيْلِ: کثرت

سے ہونا اور وادی کے کنارہ سے ہونا۔

كُلُّ سَائِلٍ: جاری ہونا۔ کہا جاتا ہے

"فَاضَتْ عَيْنُهُ" یعنی آنسو بہ رہے فَاضٌ

الْمَجْرُوحُ پھیل جانا۔ الشُّيْ: بہت ہونا)

فَيْضًا وَفَيْضًا: مرنا۔ فَاضَتْ نَفْسُهُ:

روح لگتا (فَيْضًا) الْإِنَاءُ: برتن کا بھر جانا۔

صَدْرُهُ بِالْبَسْرِ: بھید کو چھپانہ سکتا۔

أَفَاضَ الْفَاضَةَ: الدَّمْعُ: آنسو بہانا۔

الْمَاءُ: پانی گرانہ۔ الْإِنَاءُ: برتن کو لبریز کر

دینا۔

الْقَوْمُ مِنَ الْمَكَانِ: متفرق و منتشر ہو جانا۔

الْقَوْمُ فِي الْحَدِيثِ: لگتگو میں مشغول

ہونا۔

الْقَوْمُ عَلَى الرَّجُلِ: غالب ہونا۔ بِالشُّيْ:

پھیلنا۔ دُفِعَ: اور کہا جاتا ہے "مَا أَفَاضَ

بِكَلِمَةٍ" یعنی کچھ نہیں بولا۔

تَفَيْضُ: الْجَفْنُ: آنسو بہانا۔

إِسْتَفْضَ: اسْتَدْرَجَةَ الخَبْرُ: پھیلنا۔

الْمَكَانُ: کشادہ ہونا۔ الْوَادِي شَجْرًا:

وسیع ہونا اور درخت بہت ہونا۔ الْقَوْمُ فِي

الْحَدِيثِ: مشغول ہونا۔ الرَّجُلُ: پانی

بہانے کو کہنا۔ الْقِدَاخُ وَالْقِدَاخُ: تیر سے جوڑ

کھیلنا۔

الْفَيْضُ: مہ۔ موت۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبْنَا فِي

فَيْضِ فَلَانٍ" فلاں کے جنازہ میں گئے۔ الْفَيْضُ

مِنَ الْعَجَلِ: بہت تیز رو گھوڑا۔ جَ فَيْضُ

وَأَفْيَاضُ: کہا جاتا ہے "مَاءٌ فَيْضٌ" بہت پانی

"وَأَعْطَاهُ عَيْضًا مِنْ فَيْضِ" اس نے بہت میں

سے تمہوڑا دیا۔ رَجُلٌ فَيْضٌ: فَيَاضٌ وَخِي آوی۔

الْفَيْضُ: بہت پانی والا۔ رَجُلٌ فَيْضٌ: بہت

جوڑو بخشش کرنے والا۔

حَدِيثٌ (مَفَاضٌ وَمُسْتَفِيضٌ وَمُسْتَفَاضٌ)

فِيهِ: پھیلی ہوئی بات۔

دِرْعٌ (مَفَاضَةٌ) کشادہ زرہ۔

فَاطٌ يَفِيضُ فَيْضًا وَفَيْضَانًا وَفَيْضًا وَ

فَيْضًا: مرنا۔

أَفَاطَ اللَّهُ: موت دینا۔ کہا جاتا ہے حَضَرْتُهُ

حَتَّى أَفْطَتْ نَفْسُهُ فِي لَيْلٍ كَمَا مَارَ إِيَّاهَا نَكْرًا

کہ قتل کروا۔

الْفَيْضُ: مہ۔ موت۔ کہا جاتا ہے "حَانَ فَيْضُهُ"

اس کی موت آگئی۔

الْفَيْضُ: جنگل جس میں پانی نہ ہو۔ ہموار جگہ

أَفْيَافٌ وَفَيْوُفٌ: الْفَيْفُ مِنَ الْأَرْضِ: مختلف

ہواؤں والی زمین۔

الْفَيْفِيُّ وَالْفَيْفَاءُ وَالْفَيْفَاءَةُ: بمعنی الْفَيْفُ جَ

فَيَافٍ: الْفَيْفَاءُ: پکنا پتھر۔

فَاقٌ يَفِيضُ فَيْضًا: جان دینا۔ مرنا۔

أَفْيَقٌ أَفْيَاقًا: الشَّاعِرُ: بمعنی أَلْفَلَقُ۔

الْفَيْقِيُّ: مرغی کی آواز۔

فَالِ يَفِيضُ فَيْضًا وَفَيْوُفًا وَفَيْوُفًا زَائِيَةً: کمزور

اور غلط ہونا۔ صفت فَائِلُ الرَّأْيِ وَقَالَهُ وَفَيْلَةٌ

وَفَيْلَةٌ: وَقَالَ الرَّجُلُ: ہاتھی جیسا ہونا۔

فَيْلٌ زَائِيَةٌ: غلطی پکڑنا۔ کمزور سمجھنا۔

الرَّجُلُ فِي زَائِيَةٍ: صواب کو نہ پہنچنا۔

تَفَيْلٌ: زَائِيَةٌ: کمزور ہونا۔ النَّبَاتُ:

نباتات کا بڑھنا۔ الشَّبَابُ: جوانی و دلہنا۔

الرَّجُلُ: موٹا ہونا۔

الْقَالَ: لگن۔ خال کا ٹھنڈ۔

الْفَيْلُ: ہاتھی۔ جَ الْفَيْلُ وَفَيْلَةٌ وَفَيْوُفٌ مَوْثٌ

فَيْلَةٌ: الْفَيْلُ: مرد فرومایہ۔ ذَاءُ الْفَيْلِ: ایک

بیاری ہے جس میں پاؤں سوچ جاتا ہے۔ فیل پا۔

الْفَيْلُ: مہات۔ ہاتھی بان۔ جَ فَيْلَةٌ:

فَائِلُ الرَّأْيِ وَقَالَهُ وَفَيْلَةٌ: کمزور رائے والا۔

فَيْلٌ: اللَّحْمُ: بہت گوشت والا۔ فَيْلُ الرَّأْيِ:

کمزور رائے والا۔

الْفَيْلَةُ: رائے کی کمزوری۔

الْمَفْيُولُ: ہاتھی کے بچے۔

الْفَيْلِجَةُ: ریشم کے کیڑے کا کولیا۔ جَ فَيْلِجٌ:

الْفَيْلِقُ: بڑا لکڑ۔ بڑا آوی۔ جَ فَيْلِقٌ:

الْفَيْلِمُ: بزدل۔ کشادہ منہ کانواں۔ لگھا۔ موزر

خوان کے نیچے بچھانے کا چمڑا۔ تلخ کی کثرت

جَ فَيْلِمٌ (وَالْفَيْلِمَانِيُّ) بڑے ڈیل ڈول

کامرو۔

فَانْ يَفِيضُ فَيْضًا: آنا۔

الْفَيْتَةُ: وقت۔

الْفَيْتَانُ: خوبصورت لہجے والوں والا مؤنث

فَيْتَانَةٌ:

تَفْيَهُقُ: فِي الْكَلَامِ: بہت پھیل کر لگتگو کرنا۔

فِي مَشِيئِهِ: ناز سے چلنا۔ عَلَيْهِ

كَلْدًا: بڑا ہونا۔

الْفَيْهَقُ: ہر کشادہ جِزَعٌ فِيهَا هَقُ:

الْفَيْهَكُ: بیوقوف عورت۔

يَذُوهُ عَنِ الشَّيْءِ: بکڑنے سے باز رہنا۔
 قَبْضَةٌ عَنِ الْأَمْرِ: ہٹانا۔ زور کرنا۔ قَبْضَةُ اللَّهِ:
 وفات دینا۔ قَبْضُ الشَّيْءِ: سمیٹنا۔ الحادِی
 الإیْلِ: اُونٹ کو تیز ہانکنا۔ الطَّائِرَاتُ جَنَاحَهُ:
 پرندہ کا بازو سمیٹنا۔ الذَّارُ وَنَحْوَهَا: قبضہ
 کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ يَقْبِضُنِي مَا قَبِضَكَ"
 جس چیز نے تجھے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف
 پہنچائی و فُلَانٌ الْخَيْرُ يَنْبَسِطُهُ وَالشَّرُّ يَقْبِضُهُ"
 فلاں کے لئے خیر باعث بسط اور شر باعث قبض
 ہے۔ "وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسِطُ" یعنی اللہ کسی پر
 رحمت کرتا ہے اور کسی پر عسکر ڈالتا ہے۔
 قَبْضُ (ض) قَبْضًا وَانْقَبَضَ مِنْهُ الْمَالُ:
 اپنے لئے لینا۔ قَبْضَةٌ: ٹھنی بھر لینا۔
 قَبْضُ (ض) قَبْضًا وَانْقَبَضَ: فِی حَاجَتِهِ:
 جلدی کرنا اور دامن سمیٹنا۔ الْقَوْمُ: چھوڑ
 دینا۔ نَطَلْنَهُ: قبض ہونا۔ انْقَبَضَ الشَّيْءُ:
 ملنا۔ مقبض ہونا۔ ستمنا۔
 قَبْضُ الْعَرِضِ: قریب المرگ ہونا۔ مرنا۔
 قَبْضُ الشَّيْءِ: جمع کرنا۔ سمیٹنا۔ سکیڑنا۔ کہا جاتا
 ہے "قَبْضُ وَجْهِهِ فَتَقْبِضُ" اس نے اپنا منہ
 بکاٹا پس وہ بکڑ گیا۔ "وَقَبْضُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ" اس
 نے اپنی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر عسکر
 ڈال لیا۔ قَبْضُ الْمَالِ فُلَانًا: مال کسی کے قبضہ
 میں دینا۔ مال پر کسی کا قبضہ کرنا۔
 قَابِضَةٌ مُقَابِضَةٌ: ہاتھ میں ہاتھ دینا۔
 اقْبِضِ - السِّيفُ: تلوار کا قبضہ بنانا۔
 فُلَانًا الْمَتَاعُ: سامان پر قبضہ کرنے کے لئے
 برا لگینے کرنا۔
 تَقَبَّضَ: جمع ہونا۔ الْجِلْدُ فِي النَّارِ:
 کھال سکا جانا۔ الْوَجُلُ عَنِ الْأَمْرِ: نفرت
 کرنا۔
 إِلَيْهِ: بوندنا۔ عَلَى الْأَمْرِ: توقف کرنا۔
 تَقَابُضُ الْمُتَبَايَعَانِ: بائع اور مشتری کا بیہ
 اور من پر قبضہ کرنا۔
 الْقَبْضُ - مع: تیز ہانکنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
 الْمَالُ فِي قَبْضِهِ" مال اس کی ملکیت میں ہو گیا۔
 الْقَبْضُ: قبضہ کیا ہوا مال۔ جلدی۔ تقسیم سے
 پہلے قیمت کھال۔

المقبض والمقبس۔ وہ چیز جس سے آگ کا
 شعلہ لیا جائے۔ المقبض: وہ عورت جو جلدی
 سے حاملہ ہو جائے۔
 المقبضون۔ وہ عورت جس کو حیض نہ آتا ہو۔
 قبض (ض) قبضًا۔ القرض: گھوڑے کا بہت
 تیز دوڑنا۔ صفت (قبض) الزجل۔ سیراب
 ہونے سے پہلے روکنا۔ الغلام۔ لڑکے کا جوان ہونا
 (وقبض) الشئ: بچکی سے لینا۔
 قبض قبضًا۔ بڑے سردالا ہونا۔ درو بگر میں
 جلا ہونا۔ سبک ہونا۔ چست ہونا۔
 (وقبض) الجراد على الشجر: ٹڈیوں
 کا درخت پر اکٹھا ہونا۔
 القبض قبضًا من كذا: بچکی سے لینا۔
 القبض والقبض۔ بہت سے آدمی۔
 القبض بہت سے آدمی۔
 القبض والقبض۔ بگر کا درو جو باسی منہ سمجھو
 کے کھانے اور اس پر پانی پینے سے ہوتا ہے۔
 القبضة والقبضة: چکی۔ من الطعام:
 لپ بھر خوراک۔ ج قبض۔
 القبضة۔ ہستی قبضة۔ القبضة: مٹی کا
 ڈبیر۔ ٹکری۔
 القبضون: ہکا پھکا چست۔
 حنبل قبض: چھوٹی رسی۔ القبض۔ ہکا پھکا
 چست۔
 القبضی: تیز دوڑ۔
 الأقبض: بڑی کھوپڑی والا۔ من الخيل:
 چست تیز رفتار گھوڑا۔ الأقبض: وہ شخص جو چلنے
 میں قدم کے اگلے حصے سے غبار اڑائے اور غبار
 ایزی پر پڑے۔ مؤنث قبضاء: قبض۔
 القبضاء: بڑی کھوپڑی۔
 القبضی: مٹی کا ڈبیر۔
 القوابض: جہاتیں۔ ہاریاں۔ واحد قابضة۔
 المقبض: رسی جو گھوڑ دوڑ کے میدان میں
 باندھ دی جاتی ہے تاکہ سارے گھوڑے ایک
 قطار میں ہو جائیں۔ ج مقابض۔
 حنبل متقبض: چھوٹی رسی۔
 قبض (ض) قبضًا۔ قبضہ۔ قبضہ الشئ و علی
 الشئ: کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنا۔ سچے سے پکڑنا

القبضة والقبضة والقبضة والقبضة
 والقبضة۔ ایک پرندہ ہے جس کو فارسی میں
 چکاوک اور اردو میں چندول کہتے ہیں۔ ج قبض
 وقبض وقبایر۔
 القبض: شکاری کا چراغ۔ لوگوں کی جماعت جو
 شکار کو جال سے کھینچنے کے لئے جمع ہو۔
 القبضون۔ پست زمین۔
 المقبض والمقبضة والمقبضة والمقبضة
 والمقبضة۔ قبرستان۔ ج مقابض۔
 المقبض والمقبضی۔ مقبرہ کی طرف
 نسبت۔
 القبضون۔ عمدہ تانا۔ قبضوس: بحر روم کا ایک
 بڑا جزیرہ۔ اور نسبت کے لئے قبضوسیتی ج
 لہباسة۔
 القبض ایک قسم کا بابا۔
 القبض بہت قد۔ نبیل۔
 قبض (ض) قبضًا منہ التاز: شعلہ لینا۔
 التاز: آگ جانا۔ العلم: علم۔ علم۔
 استفادہ کرنا۔ قبضہ التاز: کسی کے لئے آگ لانا۔
 (وقبض) فلانًا العلم: سکھانا۔
 واقبض فلانًا کسی کو آگ دینا۔
 واقبض منہ التاز او العلم: ہستی قبض۔
 من العلم: استفادہ کرنا۔ واقبضہ تازًا:
 کسی سے آگ لینا۔
 القابض۔ قہ آگ طلب کرنے والا۔ ج
 القابض۔
 القابض اصل۔
 القبض والمقبض: آگ کا شعلہ۔
 القبضة قبضت کاسم مرة قبضة العجلان:
 جلد بازی کے لئے مثال ہے۔ اس آگ لینے
 والے سے تشبیہ دی گئی ہے جو گھر میں داخل ہو
 اور صرف اتنی دیر ٹھہرے کہ آگ لے سکے۔
 القابضون۔ خوب صورت چہرہ اور اچھے رنگ و
 روغن کا مرد۔
 القوابض: اچھی بات سکھانے والے لوگ۔
 المقبض: لکڑی کا وہ حصہ جو جل رہا ہو ج
 مقابض۔
 المقبض: آگ کا شعلہ۔

القَبِيضَةُ قَبِيضٌ كَالِاسْمِ مَرَّةً مَوْتٌ كَمَا جَاءَتْ فِي
"صَارَ الْمَاءُ فِي قَبِيضِهِ" مَا لَاسِ كِ مَلِكِي
مِنْ هَوْنِيَا قَبِيضَةُ السَّيْفِ كَمَا رَأَى قَبِيضَهُ
القَبِيضَةُ والقَبِيضَةُ مَبْرُورَةٌ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْءِ
مُشِيٌّ بِمَرَكِرٍ

القَبِيضَةُ تَنْتَضِمُ جَرُوبًا كَمَا جَاءَتْ فِي "رَجُلٌ
قَبِيضٌ زُقْفَةٌ" قَبِيضٌ كَرْنٌ وَالْأَوَّلُ جَلْدِيٌّ جَمُورٌ
بِزَيْتِ الدَّامِرِ

القَبِيضُ والقَبِيضَةُ سَكْرَانَا جَلْدِيٌّ
القَبِيضُ والقَبِيضَةُ بِمَتِّ سَخْتِ قَبِيضِ كَرْنِ
وَاللَّاحِ تَبْرَانِ كَلْتِ وَاللَّاحِ

القَبِيضُ نَا _____ مِنَ الطَّعَامِ زُبَانٌ يَكْرَهُ
عَلَى خَوْرَاك _____ مِنَ الْأَدْوِيَةِ قَبِيضٌ كَرْنٌ
عَرَا دَوَا تَبْرَانِ كَلْتِ وَاللَّاحِ قَبِيضُ الْأَزْوَاجِ حَمْرَتِ
عَرَا تَكَلِ عَرَا

القَبِيضُ سَكْرَانَا تَبْرَانِ حَمْلٌ مَبْرُورٌ كَارِ مَبْرُورٌ
لِاسْمِ كَامٍ بِمَبْرُورٍ

المَقْبُضُ والمَقْبُضُ والمَقْبُضُ
وَالْمَقْبُضَةُ وَالْمَقْبُضَةُ وَالْمَقْبُضَةُ تَوَارِكَا
تَبْرَانِ مَقْبُضِ

قَبِيضٌ (ن) قَبِيضٌ الشَّيْءُ تَابَهُ سَعَةً جَمْعُ كَرْنِ
لَا تَابَ

قَبِيضٌ وَجْهٌ جَرَشٌ رَوِيٌّ كَرْنٌ مَبْرُورٌ
القَبِيضُ مَبْرُورٌ مَبْرُورٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
وَأَصْرُ قَبِيضِ جِ الْقَبِيضِ

القَبِيضَةُ والقَبِيضَةُ كَرْنٌ كَارِ مَبْرُورٌ قَبِيضٌ
طَرَفٌ مَبْرُورٌ جِ القَبِيضِ والقَبِيضِ
القَبِيضُ والقَبِيضُ والقَبِيضُ وَالْقَبِيضَةُ كَرْنِ
حَمْرَتِ مَبْرُورٌ رِيوِيٌّ

قَبِيضٌ (ف) قَبِيضٌ القَبِيضُ سَعَةً كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
مِنْ سَرِ مَبْرُورٌ _____ الرُّجُلِ فِي قَبِيضِهِ
كَرْنِ مَبْرُورٌ _____ زَأْسٌ سَرُورٌ كَرْنِ
مِنْ دَاغِلٌ كَرْنِ _____ فِي الْأَرْضِ جَابَا (قَبِيضٌ)
الجَوَالِقِ كَرْنِ كَرْنِ مَبْرُورٌ _____ قَبِيضٌ
وَقَبِيضٌ عَنِ أَصْحَابِهِ تَحَلَّتْ كَرْنِ _____

النَّجْمِ سَتَارَةً كَرْنِ مَبْرُورٌ كَرْنِ جَابَا
الرُّجُلِ جَابَا مَبْرُورٌ مَبْرُورٌ هُوَا _____ المَبْرُورَةُ
عَمْرَتِ كَرْنِ جَابَا (قَبِيضٌ وَقَبِيضٌ وَقَبِيضٌ)

الْحَيْنُورِيُّ سَوْرٌ كَرْنِ القَبِيضِ تَابَهُ كَرْنِ كَرْنِ
_____ وَالْقَبِيضُ المَبْرُورَةُ مَبْرُورٌ كَرْنِ
ذَالٌ كَرْنِ

القَبِيضُ القَبِيضُ القَبِيضُ
القَبِيضُ والقَبِيضُ سَعَةً كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
جَانُورٌ

القَبِيضُ يَبْرُورٌ مَبْرُورٌ كَرْنِ كَرْنِ
القَبِيضَةُ كَرْنِ مَبْرُورٌ سَابِرٌ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضَةٌ وَيَابَانِ قَبِيضَةٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
_____ "إِمْرَأَةٌ قَبِيضَةٌ طَلْعَةٌ" كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ

ظَاهِرٌ هُوَا دَاغِلٌ كَرْنِ
القَبِيضَةُ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
القَبِيضُ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ

القَبِيضُ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
القَبِيضَةُ مِنَ السَّيْفِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
يَابُورِ كَرْنِ

القَبِيضَةُ والقَبِيضَةُ سَوْرٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
القَبِيضُ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
كَرْنِ كَرْنِ

القَبِيضُ والقَبِيضُ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ

القَبِيضُ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
مَبْرُورٌ قَبِيضَةٌ
قَبِيضٌ قَبِيضَةٌ القَبِيضُ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
يَبْرُورٌ هُوَا

القَبِيضُ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
القَبِيضَةُ مَبْرُورٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
جَانُورِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
القَبِيضُ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ

القَبِيضُ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
القَبِيضُ والقَبِيضُ بِمَتِّ سَخْتِ أَدْمِي القَبِيضِ
أَمْرَةٌ تَبْرَانِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
العَامِ وَلَا القَابِلِ وَلَا القَابِلِ بِمَبْرُورٌ كَرْنِ كَرْنِ
فَلَا جَابَا كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ

قَبِيضٌ (س) قَبِيضٌ وَقَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
_____ الكَلَامِ تَبْرَانِ كَرْنِ
قَبِيضٌ (ن) قَبِيضٌ وَقَبِيضٌ رِيحٌ القَبِيضُ كَرْنِ كَرْنِ

هُوَ جَابَا
قَبِيضٌ (ن) قَبِيضٌ عَلَى الشَّيْءِ مَبْرُورٌ هُوَا
لَا زَمَّ هُوَا _____ المَبْرُورَةُ مَبْرُورٌ هُوَا كَرْنِ كَرْنِ
"قَبِيضٌ القَبِيضَةُ القَبِيضَةُ" جَانُورِ دَاغِلِ كَرْنِ
جَابَا مَبْرُورٌ هُوَا

قَبِيضٌ (ف) قَبِيضٌ القَبِيضُ دَاغِلٌ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ (س) قَبِيضٌ القَبِيضَةُ عَمْرَتِ كَرْنِ كَرْنِ
جَابَا هُوَا _____ القَبِيضَةُ القَبِيضَةُ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ (س) وَقَبِيضٌ (ن) قَبِيضٌ القَبِيضَةُ كَرْنِ كَرْنِ
خَاصٌّ هُوَا

قَبِيضٌ (ن) قَبِيضٌ وَقَبِيضٌ (س) قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ
كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ القَبِيضُ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ

قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ

قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ

قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ

قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ

قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ

قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ
قَبِيضٌ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ كَرْنِ

جئانی۔ ج قوابل و قابلات۔ قوابل الامر۔
او اکل امر۔

المقَابِل۔ مضم۔ الزجلُ المقَابِل۔ ماں باپ کی
طرف سے شریف۔ کہا جاتا ہے ”زجلُ مقَابِلُ
مڈاقر“ نجیب العرفین مرد۔

المُقْتَبِل۔ مضم۔ مقبول۔ مِنَ الشَّيْبِ ہونے
لگا ہوا کپڑا۔ زجلُ (مُقْتَبِلُ) الشَّيْبِ : مرد
نوجوان جس میں بڑھاپے کے آثار ظاہر نہ ہوں۔
المُسْتَقْبِل۔ فاء۔ (المُسْتَقْبِلُ والمُسْتَقْبِلُ)
مِنَ الزَّمَانِ : آنکندہ زمانہ۔

قَبِيْن (ض) قَبُوْنَا۔ الزجلُ : نلک میں جانا۔
قَبِيْنُ الشَّيْءِ : قبان سے تونار (دیکھئے قَبَان)
أَقْبِنُ۔ دشمن سے گلست کھانا۔ بے خوف تیز
دوڑنا۔

القَبِيْنَةُ۔ ضروریات میں بھاگ دوڑ۔
القَبَانُ۔ بھاری اشیاء کے تولے کا ایک آلہ
(ذیل)

القَبِيْنُ۔ اپنے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنے
والا تیز رو۔

قَبَانِيْبُو قَبُوَا۔ البناء : عمارت کو بلند کرنا گنبد
نما بنانا۔ الزَعْفَوَانُ : زعفران توڑنا اور جمع
کرنا۔ الشَّيْءُ : کسی چیز کو اٹھایوں سے جمع کرنا
(قَبَانِ الشَّيْءِ : کسی چیز کو کمان جیسا کرنا۔
الحَوْفُ : بلانا۔

قَبِي تَقْبِيْتُهُ۔ المتَاعُ : سامان مہیا کرنا۔
النُّوبُ : کپڑے کو قبا بنانا۔ عَلِيٌّ فَلَانٍ : ظلم
کرنا۔

تَقْبِي الشَّيْءِ : گنبد جیسا ہونا۔ القَبَاءُ :
قبا بننا۔ الزجلُ : پیچھے سے آنا۔
أَقْبِي عَقْدًا : پوشیدہ ہونا۔

أَقْبِيْتِي۔ المتَاعُ : سامان مہیا کرنا۔ آراستہ کرنا۔
القَبُوُ : کچھی ہوئی عمارت۔ گنبد۔ تہ۔ گول گنبد
دار کمرہ۔

القَبُوَةُ۔ قبا کا اسم مرہ۔ دونوں ہونٹوں کا ملانا۔
القَبِيَاءُ۔ لیسیم۔ بنو قبا بنی : شراب پینے کے لئے
جمع ہونے والے۔

القَبَاءُ۔ ایک کپڑا ہے جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا
ہے۔ ج اَقْبِيَةٌ۔

پڑھتا ہے کعبہ۔ جس چیز کا سامنا کیا جائے کہا جاتا ہے
لئے اس معاملہ میں آگیا چھپا نہیں یعنی نہیں جانتا کہ
کیا کرے۔ ”وَأَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ قَبْلَةً“ اپنے
مکانوں کو آمنے سامنے کرو۔

القَبْلَةُ۔ بوسہ۔ کفالت۔ ضامن۔ ج قَبْلُ۔
القَبْلَةُ۔ ایک قسم کا مہرہ جس کو جادو کرنی استعمال
کرتی ہے اور اسی سے جادو کرتی ہے ج قَبْلُ۔
القَبْلَةُ۔ بسکون الباء اور القَبْلَةُ۔ مضم القاف و
سکون الباء بھی اسی معنی میں ہے۔

القَبَالُ۔ مِنَ التَّغْلِ : تسمہ : کہا جاتا ہے زجلُ
مُنْقَطِعُ القَبَالِ مرد بردارے۔
القَبَالَةُ۔ مہ۔ ضمانت۔ کفالت۔ کہا جاتا ہے
جَلَسَ قَبَالَتُهُ یعنی وہ اس کے سامنے بیٹھا۔

القَبُوْلُ۔ مہ۔ اچھی ہیئت۔ بلا صبا۔ دائی جئانی۔
عافیت اور نعمت وغیرہ کا آنا۔

القَبِيْلُ۔ ضامن۔ کفیل۔ شوہر۔ تین یا زائد کی
جماعت۔ ج قَبْلُ و قَبِيْلًا۔ القَبِيْلُ : خدا کی
اطاعت (ذبیور : خدا کی نافرمانی) القَبِيْلُ مِنَ
النِّسَاءِ : دائی جئانی۔ کہا جاتا ہے ”مَا يَعْرِفُ قَبِيْلًا
مِنَ ذَبِيْرٍ“ وہ آنے جانے والے کو پہچانتا نہیں
”وَمِنَ قَبِيْلٍ ذَلِكُ“ اس کی جنت سے اور کہا جاتا
ہے ”وَأَيُّتُهُ قَبِيْلًا“ میں نے اس کو سامنے سے
ظاہر طور پر دیکھا۔

القَبِيْلَةُ۔ ایک باپ کے بیٹے۔ کنوئیں کے من کا
چتر۔ چترے کا ہر ایک ٹکڑا۔ ج قَبَائِلُ۔ قَبَائِلُ
الزَّوْاِجِ : سر کی ہڈی کے ٹکڑے بعض بعض سے
ملے ہوئے۔ قَبَائِلُ الطَّيْرِ : پرندوں کی قسمیں۔
قَبَائِلُ النُّوْبِ : کپڑے کے ٹکڑے۔

الإِسْتِقْبَالُ۔ مہ۔ مِنَ الزَّمَانِ : حال کے بعد
آنے والا زمانہ۔

الأَقْبِلُ۔ وہ شخص جس کی آنکھوں میں بھیگا پن
ہو۔ ”زجلُ اَقْبِلُ“ ناک کی جانب دیکھنے والا مرد۔
مؤنث قَبِلَاءُ۔ ج قَبْلُ۔

القَبَائِلُ۔ فاء۔ آنکندہ سال۔ آمادہ قبول۔ متاثر۔ ج
قَبْلَةُ۔

القَبَائِلِيَّةُ۔ قبول اور تاثر کی آمادگی کی حالت۔
القَبَائِلَةُ۔ قائل کا مؤنث۔ آنے والی رات۔ دائی

عقل مند ہونا۔
أَقْبَلْتُ وَأَقْبَلْتُ عَيْشَهُ إِفْلَاحًا وَإِقْبِيلًا۔
نگاہ کا لینے کا ہونا۔

الإِسْتِقْبَالُ۔ الشَّيْءِ : سامنے ہونا۔
الزجلُ : توجہ کرنا۔ سامنا کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

قَبْلُ۔ پہلے۔ آگے۔ اور یہ ظرف زمان ہے کبھی
معرّب ہوتا ہے۔ جیسے مَاتَ الخَلِيْفَةُ وَمَاتَ
الْوَزِيْرُ قَبْلَهُ و مِنْ قَبْلِهِ۔ کبھی مضاف الیه
مذکور ہوتا ہے۔ اگر نیت میں ہو تو بنی علی التعم
جیسے مَاتَ الخَلِيْفَةُ وَمَاتَ الوَزِيْرُ قَبْلُ و مِنْ
قَبْلُ۔ اور اگر مضاف الیه نہ لفظوں میں ہو نہ نیت
میں تو معرب جیسے مَاتَ الخَلِيْفَةُ وَمَاتَ الوَزِيْرُ
قَبْلًا و مِنْ قَبْلُ۔

قَبِيْلُ۔ قبل کی تغیر۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ فَلَانٌ
قَبِيْلُ العَصْرِ“ یعنی فلاں عصر سے کچھ پہلے آیا۔
القَبْلُ والقَبِيْلُ۔ اگلا حصہ۔ مِنَ الزَّمَانِ :

ابتدائی زمانہ۔ مِنَ الجَبَلِ : دامن کوہ ج
أَقْبَلُ کہا جاتا ہے أَقْبَلُ قَبْلَهُ یعنی اس نے اس کا
تصد کیا ”وَأَيُّتُهُ أَقْبَلًا وَقَبْلًا وَقَبْلًا
وَقَبِيْلًا وَقَبِيْلًا“ میں نے اس کو ظاہر طور پر
سامنے دیکھا۔

القَبْلُ۔ مہ۔ سامنے کی مرتفع زمین۔ واضح
راستہ۔ کبریٰ کے سینگوں کا چرے پر ہونا۔ کہا جاتا
ہے ”حَبَا اللّٰهُ قَبْلَةَ“ اللہ باقی رکھے اس چیز کو جو
اس سے پہلے نظر آئے۔ القَبْلُ : دائی کی پتہ
جاننے کی لطف تدبیر ہر چیز جو پہلے نظر آئے۔ کلام
کی برجستگی۔ باقی دانت وغیرہ کا گول تعویذ جو
عورت اور گھوڑے کے سینہ پر لٹکایا جاتا ہے
و القَبْلُ فِي العَيْنِ : آنکھ کی سیاہی کا ناک کی
طرف جھلنا۔ فِي العَيْنَيْنِ : ہر آنکھ کی نگاہ کا
ایک دوسرے کی طرف جھلنا۔

القَبْلُ۔ طاقت۔ تدرت جیسے ”مَالِي بِه قَبْلُ“
مجھے اس کی طاقت نہیں۔ کہا جاتا ہے ”لِي قَبْلُ
فَلَانٍ ذِيْنٌ“ میرا فلاں کے پاس قرض ہے
”وَأَتَانِي مِنْ قَبْلِهِ“ اس کے پاس سے میرے
پاس آیا۔ اس کی طرف سے میرے پاس آیا۔

القَبْلَةُ۔ قَبْلُ کا اسم نوع۔ جنت۔ اور اسی سے
ہے قَبْلَةُ المَصْبِيْیِ اس جنت کیلئے جدھر نماز

الْقِيَاء - مقدار۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا قِيَاءٌ قَوْسَيْنِ وَقَابٌ قَوْسَيْنِ" یعنی دو کمان کے مقدار۔ گناہیہ قریب سے۔
 الْقَيْبَةُ - اوجھ کا وہ حصہ جس میں پرت پرت ہوتا ہے۔ تاوا مخدومہ کے بدلہ میں ہے۔
 الْمَقْبُوءُ - مغم۔ جمع کیا ہوا۔ ملا ہوا۔
 الْمَقْبِيُّ - بست چربی والا۔
 الْقَيْسِيُّ - مقدار۔
 الْقِيَاةُ - بیابان۔
 قَيْتٌ (ن) قَيْتًا - جھوٹ بولنا۔ الْقَيْتُ - کپڑے کو لہبائی میں کاٹنا۔ الشَّيْءُ: کسی چیز کو صورتاً تو ہوا جمع کرنا۔ کم کرنا۔ میا کرنا۔ قَيْتٌ اِلَى فُلَانٍ وَقَيْتٌ اَنْوَ فُلَانٍ: ارادہ معلوم کرنے کیلئے کسی کے پیچھے پوشیدہ طور پر جانا۔
 قَيْتٌ وَقَيْتٌ - الاحادیث: سخن چینی کرنا۔
 وَقَيْتٌ الْاَفَادِيَّةُ: ہانڈی میں دلانا اور پکارنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَنْتُ الْحَدِيثُ" وہ باتوں میں تزویر اور تمسین کرتا ہے۔
 تَقَيْتٌ - الْحَدِيثُ: بات کے پیچھے پڑنا۔ کان لگانا۔
 اِقْتَتَ الشَّيْءُ: کسی چیز کو بڑے آکھینا۔
 الْقَيْتُ - مہ۔ جھوٹ۔ اپست یا اپست خشک۔
 ایک قسم کا جنگلی دانہ ہے جس کو دیہاتی کوٹنے اور پکانے کے بعد کھاتے ہیں۔ واحد (قَيْتَةٌ)
 الْقَيْتَاتُ - ایک قسم کی نباتات۔
 الْقَيْتَاتُ وَالْقَيْتُونَ - چغل خور۔ اِمْرَاةٌ قَيْتَانَةٌ وَقَيْتُونَ - چغل خورن۔
 الْقَيْتِيئِيُّ - چغلی۔ زَجَلٌ قَيْتِيئِيُّ - چغل خور مرد۔
 قَوْلٌ (مَقْتُونٌ وَمَقْتَتٌ) - جھوٹا قول۔
 قَيْتِيَّةٌ (ن) قَيْتِيًّا - جھٹی ہوئی آنت کھلانا۔
 اَقْتَبَ الْبَيْتِيُّ: اُونٹ پر بالان باندھنا۔
 هَ يَمِيئًا: سخت قسم دینا۔ هَ الدِّينُ: گرابارو بوجھل کر دینا۔
 الْقَيْبُ - آنتیں (مذکر اور بھی مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے) جو پیٹ کے ارد گرد ہو۔ پالان۔ جِ اَقْتَابَ۔
 الْقَيْبَةُ - آنتیں۔ جِ اَقْتَابَ۔
 الْقَيْبُ - کباہہ۔ آنتیں۔ جِ اَقْتَابَ۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ قَيْبٌ يَعْصُ بِالْغَارِبِ" یعنی وہ بہت زیادہ اصرار کرنے والا ہے۔
 الْقَيْبُ - تنگ خور۔ جلدی غضبناک ہونے والا۔
 الْقَيْتُونَةُ - وہ اُونٹ جس پر بالان ہو۔
 زَجَلٌ (مَقْتَبٌ) الْكَاهِلُ: شیرھے کندھے والا مرد۔
 قَيْتًا: الْقَيْتَادُ: قنار کے کانٹے زور کر کے اُونٹوں کو چارہ دینا۔
 قَيْتًا: الْقَيْتَادُ: قنار کے اطراف کو آگ سے جھلس دینا۔
 الْقَيْتَادُ - ایک درخت ہے جس کے کانٹے سوئی کی مانند ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "مِنْ ذُوْنِ هَذَا الْاَمْرِ حِرْطُ الْقَيْتَادِ" یعنی بڑی ہی مشکل سے یہ حاصل ہو سکتا ہے اور درخت قنار کا کانٹا اس سے بہت سسل ہے اور حرط القنادر سے مراد اس کے چھلکے اور کانٹے کو ہاتھوں سے زور کرنا ہے۔
 الْقَيْتَادُ وَالْقَيْتَادُ: کباہہ کی لکڑی۔ جِ اَقْتَادُ وَاَقْتَادُ وَقَيْتَادُ۔
 قَيْتَرٌ (ن) قَيْتَرًا وَقَيْتَرًا: عَلِيُّ عِيَالِهِ: بال بچوں پر نطقہ میں تنگی کرنا۔ صفت (قَائِرٌ وَقَيْتَرٌ وَاَقْتَرُ) الشَّيْءُ: بعض کو بعض سے ملانا۔
 الدُّرُوعُ: زرہ میں منوں کے سر سے بنانا۔
 الْاَمْرُ: لازم ہونا۔ قَيْتَرًا وَقَيْتَرًا وَقَيْتَرًا: مَا بَيْنَ الْاَمْرَيْنِ: تخمینہ کرنا۔ اندازہ کرنا۔
 قَيْرُ الزَّجَلِ: روزی کا تنگ ہونا۔
 قَيْرٌ (ن) قَيْرًا وَقَيْرًا وَقَيْرًا: قَيْرًا: الْبَيْحُورُ وَاللَّحْمُ: بدبودار ہونا۔ التَّازُ: دھوئیں والی ہونا۔
 قَيْرٌ: عَلِيُّ عِيَالِهِ: نان و نطقہ میں تنگی کرنا۔
 اللَّحْمُ: گوشت کا بودار ہونا۔ الصِّيَادُ يَلْاَسِدُ: شیر کے شکار کے لئے گڑھے میں گوشت ڈالنا۔ هَ: خاک پر پھانٹنا۔ الشَّيْءُ: ایک دوسرے کے قریب کرنا۔ الزَّجَلُ: بچی ہوئی چیز کی بونیز کرنا۔ الْوَحْشُ: اُونٹ کے بال وغیرہ کی دھوئی دینا تاکہ شکاری کی بونیز محسوس کر کے بھاگ نہ جائے۔ مَا بَيْنَ الْاَمْرَيْنِ: اندازہ کرنا۔
 اَقْتَرُ: مال کم ہونا۔ عَلِيُّ عِيَالِهِ: نان و نطقہ

میں تنگی کرنا۔ الشَّيْءُ: لازم ہونا۔ اللہ رزقہ: روزی تنگ کرنا۔ التَّازُ: دھوئیں والی کرنا۔ اَقْتَرَبَ الْمَرْأَةُ: عود کی دھوئی دینا۔
 تَقْتَرُ: غضبناک ہو کر آمارہ جنگ ہونا۔
 لِلصَّيْدِ: شکار کے لئے قترہ میں چھپنا۔ (دیکھئے قَيْتَرَةٌ) فُلَانًا: قریب دیکھنے کا ارادہ کرنا۔ عَنهُ: جدا ہونا۔ الْاَمْرُ: آمارہ ہونا۔
 لِلْاَمْرِ كَذَا: نری برتاؤ۔
 تَقَاتَرُ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو قریب دینا۔
 اَقْتَرُ: الصَّيْدُ: شکاری کا قترہ میں چھپنا (دیکھئے قَيْتَرَةٌ)
 الْقَيْتَرُ - مہ۔ زندگی بسر کرنے کے قابل۔ اندازہ۔
 الْقَيْتَرُ: تیر کا پھل۔ چھوٹا تیر۔ تیر کا جو نیشاں پر پھینکا جائے۔
 الْقَيْتَرُ: گردوغبار۔ اندازہ۔
 الْقَيْتَرُ وَالْقَيْتَرُ: گوشہ و جانب جِ اَقْتَارَ: قشریں ایک لخت ہے۔
 الْقَيْتَرُ: تنگیز۔ مغرور۔
 الْقَيْتَرَةُ: قَيْتَرًا مَرَّةً: گردوغبار۔
 الْقَيْتَرَةُ: قَيْتَرًا: اسم نوع۔ الْقَيْتَرُ: کا واحد۔ اَبُو قَيْتَرَةَ: اَلْحَمِيسُ کی کنیت۔ اَبُو قَيْتَرَةَ: ایک صحیح قسم کا سانپ جس کا کانا ہوا پھینچتا ہے۔ جِ تَقَاتَرَاتُ قَيْتَرَةَ: قترہ ان سب میں غیر مصروف ہے اس لئے کہ مؤنث معروف ہے۔
 الْقَيْتَرَةُ: شکاری کا پاجان۔ زرہ کا لختہ۔ تنگی پیش روشن دان۔ قَيْتَرَةُ الْبُسْتَانِ: باغ کی ٹلی۔ قَيْتَرَةُ الْبَابِ: دروازہ میں بند کرنے کی جگہ۔ قَيْتَرُ الْقَيْتَارِ: پختہ چیز کی بھاپ۔ بخور یا گوشت یا بھنی ہوئی چیز یا جلی ہوئی بڑی یا عود کی بو۔
 الْقَيْتَرُ: زرہ کی بھول کے سر سے۔ زرہ۔ بڑھاپا یا بڑھاپے کی ابتداء۔
 الْقَائِرُ وَالْقَيْتَرُ وَالْاَقْتَرُ: جھیل۔ جو مال بچوں پر نان و نطقہ میں تنگی کرے۔ کہا جاتا ہے "مَسْجُوعٌ (قَائِرٌ وَمُقْتَبِرٌ) اَرَامٌ وَهَ زَيْنٌ جِسٌّ سَ جَالُورٌ كُو تَكْلِيْفٌ نَهْ يَخِيحُ"۔ "وَلِلْحَمِّ قَائِرٌ" یعنی وہ گوشت جس میں پختائی کی وجہ سے بو ہو۔
 الْاَقْتَرُ: خاکستری رنگ والا۔
 الْقَيْتَرِيُّ - مہ۔ قوت لایموت۔

بہت سیاہ۔
 القیتین۔ کم خوراک (فکر و مؤنت) خوار و
 ذلیل۔ ڈبلا پتلا۔ باریک نیرہ۔ چھڑی۔
 القتن۔ ایک قسم کی چوڑی مچھلی۔
 قَتَا يَغْتَوِي قَتَوًا وَقَتَا وَقَتَى وَقَتَى وَمَقْتَى
 الْمَلْدُوكُ: اچھی خدمت کرنا۔ صفت (قَات)۔
 اِقْتَوَى: الرَجُلُ: خدمت لینا (اور یہ شاذ ہے
 اس لیے کہ افعال لازم ہے)
 القفوة: قتل کا اسم مرہ۔ جملی۔
 المقفنی: جو خوراک پر خدمت کرے۔ اور
 اکثر بادشاہ کے خدام کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ج
 مَقْتُونٌ وَمَقَابِرَةٌ وَمَقَابِرَةٌ۔
 المقفوی: محسنی مقفوی۔
 قَتَّ (ن) قَتَّ الشَّيْءُ: مَحْبِنًا _____ الْإِبِلُ:
 اونٹ کو پانی پلانا (_____ واقفًا) الشَّجَرُ:
 درخت کو جڑ سے اکھڑنا۔ قَتَّ
 (ن) قَتَّارٌ قَتِينِي: المَالُ: بکھرت جمع کرنا۔
 القفئات: سامان۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ الْقَوْمُ
 بِقَفَائِهِمْ وَقَفَائِهِمْ) قوم مع اپنے ساز و سامان
 کے آئی۔
 القفئات: جمل خور۔
 القفائة والقفينة والمقنة: لوگوں کی
 جماعت۔
 اَقْفًا: الْمَكَانُ أَوِ الْقَوْمُ: بہت کڑی دلی ہوئے۔
 القفَاء والقفاء: کڑی۔ واحد (قَفَاءٌ قِفَاءٌ
 الْجِمَارُ): کربلا۔
 المَقْفَاءُ والمَقْفُوَّة: کڑی کی جگہ۔ ج
 مقافئ کہا جاتا ہے "أَرْضٌ مَقْفَاءَةٌ وَمَقْفُوَّةٌ"
 کڑی دلی سرزمین۔
 قَفَّدَ (ن) قَفَّدَا: کڑی یا کھیرا کھانا۔
 اِقْتَدَّ: کھیرا یا کڑی کھانا۔
 القفد: کھیرا یا کڑی۔
 اِقْتَفَر: الشَّيْءُ: گھر کے لیے سلمان بنانا۔
 تَقْفَر: بدل ہونا۔ ڈرنا۔ خوف زدہ ہونا۔
 القفوة: گھر کا سامان۔
 القفود والقبر دو القفود: گھر کا سامان۔
 القفود والقفود والقفاد: گھر کے بہت سامان
 والا۔ بہت بکریوں والا۔

بہادرج اَقْتَالَ۔ اور کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَقَتِلَ شَيْءٌ" وہ
 شکر کا جاننے والا ہے۔
 القفلة: قتل کا اسم نوع۔ کہا جاتا ہے "قَتَلَهُ قِفْلَةً
 سَوْءٌ" اس نے اس کو بڑے طریقے سے قتل کیا۔
 القفال: نفس۔ توت۔ کہا جاتا ہے "لِقَاتَةَ ذَاتِ
 قَتَالٍ" مضبوط اونٹنی۔
 القفول: بہت قتل کرنے والا (فکر و مؤنت) ج
 قتل و قتل۔
 القفیل: مقتول۔ (فکر و مؤنت) ج قفلی و
 قفلاء و قتالی۔
 المقفل: جسم کا وہ عضو مثلاً کینٹی کہ جس پر
 ضرب پہنچنے سے آدمی نہ بچے۔ قتل کی جگہ۔ قتل ج
 مقفیل۔
 المقفيلة: لڑنے والی جماعت۔ تاحیہ کیلئے
 جماعت کی تاول کی وجہ سے ہے واحد (مقفیل)
 المقفیل: میدان جنگ۔
 المقفل: تجزیہ کار۔ باخبر۔ دل جس کو عشق نے
 ہلاک کر دیا ہو۔
 قفم (ن) قَفُوْا مَوْقِيمَ (س) قَفَمَا: الغُبَارُ: غبار
 کا بلند ہونا۔
 قفم (ض) قَفَمَةٌ وَقَفُوْمًا: سیاہی مائل ہونا
 قَفُوْمًا وَجَهَةٌ: ہجرے کا متغیر ہونا۔
 اَقْفَمَ: الْقَوْمُ: بہت غبار والا ہونا۔
 اِقْفَمًا: اِقْفَمًا: الشَّيْءُ: کالا ہونا۔ سیاہی مائل
 ہونا۔
 القفم: ہم۔ غبار۔
 القفام والقفمة: کالا غبار۔ لڑائی کا غبار۔ تاریکی۔
 سیاہی۔
 القفام: کالا۔ کہا جاتا ہے اَسْوَدُ قَائِمٌ بہت
 کالا۔ ج قوائیم۔
 الأقفم: سیاہی مائل۔ بھورا۔
 حَيَاضٌ قَفِيمٌ: موت کا گڑھا۔
 قَفَنَ (ن) قَفَنُوْنَا: السَّمَكُ: مچھلی کا خشک ہونا۔
 اس کی تری کا زائل ہونا۔
 قَفَنَ (ك) قَفَانَةٌ وَأَقْفَنَ: کم خوراک ہونا۔ ڈبلا
 ہونا۔
 القفان والقفان: گردوغبار۔
 القفان: سیاہی مائل۔ کہا جاتا ہے اَسْوَدُ قَائِمٌ

قَتَعَ (ف) قَتَعَا: ذلیل ہونا۔
 قَاتَعَهُ مَقَاتَعَةً: مقاتلہ کرنا۔
 القفع: شکر کا چھت جو چٹان میں ہو یا ایسے خار
 میں ہو جو زیادہ گہرا نہ ہو۔
 القفع: ایک سرخ رنگ کا کپڑا جو کڑی کھاتا
 ہے۔ واحد (قَفَعَةٌ) اور کہا گیا ہے کہ قَتَعَ بِمَعْنَى
 دَبِكٌ۔
 القفعة: ذلیل۔ کہا جاتا ہے هُوَ أَقْفَعُ مِنِّي یعنی
 وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ مؤنث قَفَعَاءُ ج
 قَفَعٌ۔
 قَفَعُهُ (ن) قَفَلًا وَتَقَفَلًا: مار ڈالنا۔ صفت
 (قَاتِلٌ) ج قَاتِلُونَ وَقَفَلَةٌ وَقَفَلٌ: کہا جاتا ہے
 "قَفَلَةٌ بِأَخِيهِ" یعنی اپنے بھائی کے انتقام میں قتل
 کیا۔ قَتَلَ الْحَضْرَةَ: شراب میں پانی ملانا۔
 الجوع أو البزء: بھوک یا سردی کی تیزی کو توڑ
 دینا۔ کہا جاتا ہے "قَتَلَهُ اللَّهُ" یعنی اللہ اس پر لعنت
 کرے اور یہ بدعا کے موقع پر کہا جاتا ہے اور
 مقام مدح و ثنا اور موقع استحسان پر بھی بولا جاتا ہے
 اور کہا جاتا ہے "قَتَلَ الشَّيْءَ خَيْرًا" یعنی اس نے
 ظلم کے لحاظ سے احاطہ کر لیا "وَقَتَلَ غَلِيْلَهُ" یعنی
 اس نے اسے پلایا اور اس کی عقلی سیرابی کی وجہ
 سے زائل ہو گئی۔
 قَتَلَ الْقَوْمَ: بہت لوگوں کو قتل کرنا۔
 قَاتَلَهُ قَتَالًا وَقِفَالًا وَمُقَاتَلَةً: جنگ کرنا۔
 دشمنی کرنا _____ هُ اللَّهُ: لعنت کرنا۔ اور موقع
 استحسان پر کہا جاتا ہے "قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَشْعَرُهُ"
 نمراد اس سے مدح ہے نہ کہ قتل کی بدعا۔
 اَقْتَلَهُ: قتل کے لئے پیش کرنا۔
 تَقَتَّلَ: چلنے میں چلنا _____ لِأَخْوَرٍ: مسلت دینا
 _____ لِغُلَانٍ: جھکانا۔ فرما ہر دار ہونا (تَقَتَّلَ
 وَقَفَاتَلٌ وَاقْتَلُ الْقَوْمُ: باہم ایک دوسرے
 سے جنگ کرنا۔
 اسْتَقْتَلَ: قتل ہونے کیلئے سر جھکانا۔ (جسیا
 اسْتَقَمَاتٌ) قتل کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ یعنی
 الأثر: کوشش کرنا۔ جان جو کموں میں ڈالنا۔
 القتل: ہم القتل العمد: قتل جو مقصود ہو
 القتل الخطأ: قتل جو غیر مقصود ہو۔
 القتل: دشمن۔ دوست۔ ہمسر۔ نظیر۔ جگہ۔

القِفْرُود۔ انگریزی جڑ میں خشک کوڑا کرکت۔
لوگوں کی جماعت۔
القَفَّارِد۔ تیس کے دامن۔
قَفَقَتْ قَفَقَةً۔ الوُتْدُ: کھونٹی کو اکھیرنے کے لئے حرکت دینا۔ المِکْبِئَاتُ: ناپ پورا کرنا۔
قَفَمَ (ض) قَفْمًا۔ الشَّيْءُ: شیر کے پانانہ سے تھمنا (س) واقْتَنَمَ المَالُ: بہت لینا۔ اِقْتَنَمَ الرِّجْلُ: زیل کرنا۔ الشَّيْءُ: جڑ سے اکھیرنا۔
قَفَمَ (ن) قَفْمًا۔ لَهُ مِنَ المَالِ: کیا برگی دینا۔
فِي مَشِيئِهِ: بہت چلانا۔
قَفِيمَ (س) وقَفِيمًا (ک) قَفِيمَةً وقَفِيمًا شیر کے پانانہ سے تھیرنا۔
قَفِيمَ (س) قَفِيمًا وقَفِيمَةً: گرد آلود ہونا۔
القَفِيمُ والقَفِيمُ: خیر یا شر کا مع کرنے والا۔
القَفِيمُ: بہت دینے والا (قائم سے معدول ہے)۔
القَائِمُ: فادرینے والا۔
القَفِيمُ: سخی لوگ۔
القَفِيمَةُ: خاکسری رنگ۔
قَفَامٌ: مٹی برکسرہ۔ مادہ جو۔ بہت مال نیت قَفَا يَقْفُو قَفْوًا وقَفِي يَقْفِي قَفِيًا واقْتَفَى المَالُ: جمع کرنا۔
القَفَا: ایسی چیزوں کا کھانا جس سے کھانے میں آواز نکلے جیسے لکڑی وغیرہ۔
قَفَّ (ن) القُحُوْحَةُ وقَفَاْحَةٌ: خالص ہونا۔
القَفَّ: خالص۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ كَرِيمٌ قَفَّ" وغیرہ۔
أَعْرَابِيٌّ قَفَّ: فلاں خالص کریم اور خالص اعرابی ہے ج قَفَّاح۔ القَفَّ: سخت اور بد خو۔ مَوْنَتُ قَفْحَةٍ: کہا جاتا ہے أَعْرَابِيَّةٌ قَفْحَةٌ۔
القَفَّاح: خالص۔
قَفْحَبٌ (ن) قَفْحَابٌ وقَفْحَابَةٌ وقَفْحَبٌ: کھانا۔
قَفْحَبَتُ المَرْأَةُ: عورت کا بد کار ہونا۔
القَفْحَبُ: سن رسیدہ کھانسی والا۔
القَفْحَةُ: تھب کا مونت۔ بد کار۔ زانیہ۔ بوجھیا۔
ج قَفْحَابٌ۔
سُعَالٌ قَفْحَبٌ: سخت کھانسی۔
قَفْحَتَ (ف) قَفْحًا۔ الشَّيْءُ: کل لے لینا۔

قَحَدَ (ف) قَحْدًا واقْفَحَدَ البَيْتُ: بڑے کوہان والا ہونا۔
اسْتَقْفَحَدَتِ: الناقَةُ: اونٹنی کا بڑے کوہان والی ہونا۔
ناقَةُ قَحْدَةٍ وقَفْحَادٌ: بڑے کوہان والی اونٹنی۔
ج مقْفَحِينِد۔
القَحْدَةُ: کوہان یا کوہان کی جڑ۔ ج قَحْدًا واقْفَحِد۔
القَحْدَادُ: وہ شخص جس کے نہ بھائی ہوں لڑکا۔
المَقْفَحَةُ: کوہان کی جڑ۔
قَحَزَ (ف) قَحْزًا۔ كَوْنًا: رنجیدہ ہونا۔ مضطرب ہونا۔
قَحْزًا (س) قَحْزًا: مردہ کی طرح گرنا۔
قَحْزًا وقَحْزًا وقَحْزًا وقَحْزًا: بیجاڑنا۔ قَحْزَةً وقَحْزًا وقَحْزَةً والقَحْزَا: لاشی سے مارنا (قَحْزٌ قَحْزًا وقَحْزًا وقَحْزًا: الرِّجْلُ: ہلاک کرنا۔
قَحْزًا وقَحْزًا: لُةُ الكَلَامِ: سخت کلامی کرنا۔
القَحْزَاتُ: سختیاں۔
القَحْزَاةُ: پرندوں کے پھسانے کا جال۔
التَّفْحِيزُ: مع۔ دھکی۔ وعید۔ بڑائی۔
جُوعٌ مَقْفَحٌ: سخت بھوک۔
قَحْزَلٌ قَحْزَلَةً۔ وَالنَّاسُ: سارنا۔
القَحْزَلَةُ: لاشی۔
قَحْزَمٌ قَحْزَمَةً۔ لُونًا۔
تَقْحَزَمَ: فنی اُغْرَهُ: مشغول ہونا۔
قَحْزَنٌ قَحْزَنَةً۔ بَچَّازًا۔
القَحْزَنَةُ: لاشی۔ ج قَحْزَانٌ وقَحْزَنَاتُ۔
قَحْصَ (ن) قَحْصًا وبرجلیہ: لات مارنا۔
قَحْصٌ: تیز دوڑنا۔ جھارو دینا۔
أَقْحَصَ: دور کرنا۔
قَحْصٌ: دور کرنا۔
قَحْطَ (ف) قَحْطًا: سخت مارنا۔
قَحْطٌ (ف) قَحْطًا وقَحْطٌ (س) قَحْطًا المَطْلَرُ: بارش کرنا۔
قَحْطٌ (ف) وقَحْطٌ (س) قَحْطًا وقَحْطًا وقَحْطًا وقَحْطًا: بارش کرنا۔
اور خشک سالی ہونا۔ صفت قَحْطٌ ج قَحْطًا وقَحْطًا واقْفَحَطَ اللُّهُ الأَرْضَ: قح ڈالنا۔ واقْفَحَطَ النَّاسُ: قح میں مبتلا ہونا۔ قَحْطٌ وقَحْطٌ

واقْفَحَطَ البَنْدُ: بارش کرنا۔ خشک سالی والا ہونا۔
قَحْطٌ: القَحْطَةُ: دورخت خرمائیں گامہارنا۔
عَامٌ قَحْطًا وقَحْطًا ومَقْحُوظٌ: خشک سال۔
سَنَةٌ قَحْطًا: خشک سال۔
المَقْحُوظُ: نہ چھکنے والا گھوڑا۔
قَحْفَ (ف) قَحْفًا: کھوپڑی کا ٹاپا توڑنا۔
الشَّيْءُ: ہمالے جانا۔
الإِنَاءُ: ڈگڈگ کے سب بی جانا۔
العَحَبُ: دانے کو کھیرنا۔
الزُّمَانَةُ: انار جھلینا۔ جھلکا اتارنا۔
قَحْفًا (ف) کھانا۔
اقْفَحَفَ: مافی الإِنَاءِ: ڈگڈگ کے سب بی جانا۔
السَّبِيلُ كَلَّ الشَّيْءُ: ہمالے جانا۔
القَحْفُ: کھوپڑی۔ کھوپڑی کا جو حصہ ٹوٹ کر جدا ہو جائے۔ لکڑی کا پیالہ۔ ج اقْفَافٌ وقَحْفُوفٌ وقَحْفَةٌ: کہا جاتا ہے "زَمَاهُ بِاقْفَافٍ رَابِعٌ" اس نے اس پر بڑے بڑے کام ڈال دیئے۔ اس نے اس کو تباہی میں مبتلا کر دیا۔ "فَلَانٌ مَنَالَةٌ قَدٌ وَلَا يَقْفَحُ" فلاں نے اس کے پاس چھڑے کا پیالہ ہے نہ لکڑی کا۔ یعنی اس کے پاس کچھ نہیں قد چھڑے کے پیالہ کو کہتے ہیں۔
القَحْفَافُ: ڈگڈگ کے پینا۔
القَحْفَافُ: ہمالے جانے والا پیالہ۔
القَحْفَافَةُ: ہر وہ چیز جس کو لے کر تم چست ہو جاؤ۔
القَحْفَافُ: فاجح۔ ج قَحْفُوحٌ۔
عَجَابَةٌ قَحْفَافٌ: آدمی جو سب چیز کو اڑا لے جائے۔
المَقْفَحَةُ: وہ لکڑی جس سے دانے کو کھیرا جائے۔ ج مقْفَاحِف۔
قَحْفُوحٌ قَحْفُوحَةً لُةُ الكَلَامِ: سخت کلامی کرنا۔
فِي العَشِيِّ: تیز دوڑنا۔
الحَقِيقَةُ: اچھی طرح سے بھرنا۔
قَحْفُوحٌ العَصَوَاتُ: طلق میں پھرانا۔
القِرْدُ: بندر کھانا۔
قَحْلٌ (ف) قَحْلًا وقَحْلٌ (س) قَحْلًا وقَحْلًا وقَحْلٌ: خشک ہونا۔ صفت

لئے ایک درہم کافی ہے اور قدیہ دزہم بغیر توبہ و تائبہ کے جیسے حنسیہ دزہم۔

(۲) اسم فعل بمعنی کھنی یا کھنی جیسے قدنی دزہم بمعنی کھنی دزہم۔ ان سب صورتوں میں قد اسم ہے۔

(۳) مضارع کے ساتھ توقع کا ناکارہ دیتا ہے۔ جیسے قد تقدم الغائب اليوم۔ توقع ہے کہ غائب آج آجائے اور کبھی تعقیب کا جیسے قد يصدق الكذوب۔ جھوٹا آدمی کبھی سچ بولتا ہے۔

اور ماضی کے ساتھ تحقیق کا ناکارہ دیتا ہے۔ جیسے قد افلح من اتقى الله۔ جو اللہ سے ڈرا۔ اس نے یقیناً فلاح پائی۔ قرآن میں ہے قد افلح من زكاهًا۔ قد افلح المؤمنون۔

اور حال سے قریب کرنے کیلئے جیسے قد قام فلان۔ جبکہ قیام زمانہ قریب میں ہی ہو چکا ہو اور کبھی مضارع کے ساتھ کثیر کا ناکارہ دیتا ہے جیسے قد اشهد الغارة الشعواء تحملى۔ مراد یہ ہے کہ میں لوٹ میں بہت حاضر ہوا کرتا ہوں۔

قد (ن) قدًا وقدًا۔ الشئ: جز سے کٹنا۔ لسانی میں چھڑانا یا کٹنا۔ تم کہتے ہو۔ قدذت الشئ يصفين اور کبھی مفعول ثانی پر یا کی زیادتی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قدذت الشئ يصفين۔ قد المسافر القلاة: بیابان طے کرنا۔ قد الكلام: بات کٹنا۔ قد الذم: کٹنے کے لئے اور ٹھک کرنا۔

قد دور شکم والا ہونا۔ قد قد بطننا۔ قوم کا متفرق ہونا۔ الشئ: شکم ہونا۔ القوب: کٹ جانا اور پرانا ہونا۔ القوم: مختلف الرائے فرتے ہونا۔ القوب عليه: کپڑے کا اندازہ اور طول کے مطابق ہونا۔

انقد۔ بھٹنا۔ انقد الشئ: شکم ہونا۔ القوم: مختلف الرائے فرتے ہونا۔ القوب عليه: کپڑے کا اندازہ اور طول کے مطابق ہونا۔

انقد۔ بھٹنا۔ انقد الشئ: شکم ہونا۔ القوم: مختلف الرائے فرتے ہونا۔ القوب عليه: کپڑے کا اندازہ اور طول کے مطابق ہونا۔

گھوڑے کا سوار کو چرے کے بل گراتا۔ الامر: کسی معاملہ میں اپنے کو مشقت کے ساتھ ڈال دینا۔ افتحم الامر: کسی معاملہ میں اپنے کو مشقت کے ساتھ ڈال دینا۔

فلانا: فحارت کرنا۔ کہا جاتا ہے "انحنه عيني" میری آنکھوں نے اس کو ذلیل سمجھا۔ اقحم المنزل: بجوم کرنا۔ التجم: متارے کا غائب ہونا۔ غروب ہونا۔ وانقحم بے سوچے کچھ گھس پڑنا۔ القجم: مہ۔ بست بوزخا۔ عمر سیدہ۔ وبلا۔ مؤنث فحمة ح فحام۔

الفحمة: دشوار کام۔ ہلاکت۔ قرح فحوم: الفحمة: بے سوچے کام میں مشغول ہونا۔ بے سوچے کچھ سفر کو چل پڑنا۔ فحوم الظرفي: راستہ کی دشواریاں۔ الفحوم من الخضومات: وہ جو انسان کو کمزوریاں پر برا بھلا کہیں۔ کہا جاتا ہے "بالخضومة فحوم" الفحوم من الشهر: مہینے کی آخری تین راتیں۔ الفحمة والخضومة الفحومة: بست بوزخا۔ القحوم: بست بوزخا۔

المقحام: قاجم کا اسم مبالغہ۔ وہ شخص جو سخت مصیبتوں میں گھس پڑے۔ ج مقحاجم۔ المقحاجم: بلا کہیں۔ اور مفرد فحمة یہ جمع خلاف قیاس ہے جیسے خلاص جمع لمحة کی۔ المنقحم: مہ۔ کمزور وہ اعرابی جس کی پرورش جنگل میں ہوئی ہو۔

فحاً يفتحو فحوا۔ الدواء: دوا میں گل بابونہ ڈالتا۔ واقضى المال: کل مال لے لیتا۔ اقحت الأرض: گل بابونہ والی ہونا۔ المصحاة: بھاڑا۔

الفحوان والأفحوان: گل بابونہ۔ واحد فحوانة وأفحوانة۔ ج افحاشی و افاح اور اس کی تفسیر افحجان ہے اور اس کا واحد افحجانة افحوانة سے دانوں کو تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ افحاشی الامر: کام کے ادا کرنا۔ قد: معالی ذیل میں مستعمل ہے۔

(۱) بمعنی حسب جیسے قد زيد دزہم اور کبھی معرب ہوتا ہے جیسے قد زيد دزہم یعنی زید کے

فاحل وقحل و انقحل اور اسی سے ہے فحل الشئ یعنی بڑیوں پر کمال شک ہو گئی اور بست بوزخا ہو گیا۔ کنف تروذت فحوم وقد فحل یعنی ہم تمہارے شیخ کو کیسے واپس کر سکتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ مر گیا اور اس کی کھال خشک ہو گئی۔

افحل الشئ: خشک کرنا۔ کہا جاتا ہے افحله الصوم: روزہ نے اس کی کھال کو خشک کر دیا۔ فاحله مفاحلة۔ لازم ہونا۔ تفحل: الشئ: بڑھاپے کی وجہ سے خشک کھال والا ہونا۔ تفحل في لبوسه وحاليه: بڑے لباس اور حال والا ہونا۔

القاحل۔ فا۔ من الجلود: خشک کھال۔ الفحال: بکریوں کی ایک بیماری جس سے کھال خشک ہو جاتی ہے۔ الفحولة: خشکی۔

المتفحل: من الرجال: خشک کھال والا۔ برجال۔ فحوم (ن) فحوماً وفحوماً في الامر: کسی معاملہ میں بلا سوچے کچھ گھس پڑنا۔ البه: قریب ہونا۔

فحوم (ف) فحوماً المقاور: بیابان طے کرنا۔

فحومه واقحمه في الامر: معاملہ میں بلا سوچے کچھ داخل کرنا۔ "فحوم الفرس زاكبة" گھوڑے کا سوار کو چرے کے بل گراتا۔ افحوم فرسة التهور: گھوڑے کو نہر میں زبردستی داخل کرنا۔ الکلیمة: کسی کلمہ کو دو متلازم کلمے مثلاً مضاف مضاف الیہ کے درمیان داخل کرنا جیسے رجل كالتظ اوريد من کے درمیان اس قول میں قطع الله يندرجل من قالها اس لیے کہ اصل ترکیب یوں ہے۔

قطع الله يندرجل من قالها ورجله۔ اقحم القوم: قحط سالی کی وجہ سے اپنے ملک کو پھوڑ کر کسی سرسبز و شاداب جگہ میں چلا جانا۔ تفحوم الفرس التهور: گھوڑے کا نہر میں داخل ہونا۔ مھستا۔ القوم زاكبة:

کبری کے پزیر کی کمال۔ ج اَقْدُو قَدْزُو و قَدْادُو
اَقْدَةُ۔

الْقَدُّ۔ چڑے کا برتن۔ تسمہ۔ کالی ہوئی چیز۔
چاک۔ کہا جاتا ہے ”مَنَالَةُ قَدِّ وَلَا فِخْفُ“ اس
کے پاس نہ تو چڑے کا برتن ہے اور نہ کڑی کا۔ جو
کتابیہ ہے اس بات سے کہ اس کے پاس کچھ
نہیں۔ ج اَقْدُ۔
الْقَدُّ۔ ایک سمندری مچھلی جس کی ایک قسم
سے تیل نکالا جاتا ہے۔

الْقِدَّةُ۔ تسمہ۔ چیز کا کلا۔ مختلف الرائے
فرقے۔ ج قَدْزُو اَقْدَةُ قرآن مجید میں ہے ”كُنَّا
طَوَائِقَ قَدْادًا“ یعنی ہم مختلف الرائے فرقے
تھے۔

الْقَدَادُ۔ جنگلی چوہا۔ سیسی۔

الْقَدَادُ۔ بیٹ کا درو۔

الْقَدِيدُ۔ کانا ہوا اور خشک کیا ہوا گوشت۔ پرانا
کپڑا۔

الْقَدِيدُ۔ چھوٹا ٹاٹ۔

الْقَدِيدِيُّونَ۔ فوج کے توابع۔ جیسے درزی، ٹائی
وغیرہ۔

الْمَقْدَدُ۔ راستہ۔ ہموار جگہ۔

الْمَقْدُو الْمَقْدَةُ وَالْمَقْدُ۔ کانٹے کی چھری۔

الْقَيْدُودُ۔ لمبی پیٹھ کی اونٹنی۔ ج قَيَادِيدُ۔

قَدْخ (ف) قَدْخًا۔ فین جو جبہ۔ طعنہ مارنا۔

میب لگانا۔ کہا جاتا ہے ”قَدْخ فِی سِنَانِ اَخِيهِ“

اس نے اپنے بھائی کو دھوکا دیا ”قَدْخ الشئُ فِی

صُدْرِي“ اس چیز نے میرے دل میں اڑ کیا

”قَدْخ حِصَانِ الْخَابِيَةِ“ ٹکے کی مرکوتوڑو یا۔

الذُّوْدُ فِی الْاَسْتِنَانِ اَو الشَّجَرِ۔ دانت یا

درخت میں کپڑا لگانا۔ قَدْخَتِ الْعَيْنُ: آنکھ کا

دھنس جانا۔

الشئُ: چلو لینا۔ الْقَطْبُوبُ الْعَيْنُ:

آنکھ کے اندرونی حصہ سے پانی نکالنا۔

فِی الْقَيْدِجِ: تیرے کھل میں سوراخ کرنا۔

قَدْخ و اَقْتَدْخ۔ بِالزَّئِدِ: جھٹمان سے آگ

نکالنا۔ عرب کے امثال سے ہے ”اَضَيْتُ لِي

اَقْدَحُ لَكَ“ یعنی تم میرے لیے ہو جاؤ میں

تمہارے لیے ہو جاؤں گا۔ قَدْخ و اَقْتَدْخ

الْمَقْرَقُ: شور بانگالنا۔ الْقَيْدُ: بچے سے نکالنا
_____ و اَقْتَدْخ الْأَمْرُ: معاملہ کی تدبیر کرنا۔

قَدْخ: الْقَرْصُ: گھوڑے کو ڈبلا کرنا۔

قَدْخَتِ الْعَيْنُ: آنکھ کا دھنسنا۔

قَادَحَةٌ و قَادَحًا: ایک دوسرے پر طعن و

تشنج کرنا۔

اِسْتَفْدَحَ: زِنَادَةٌ: جھٹمان سے آگ نکالنے کی

کوشش کرنا۔

الْقَدْحُ: ہمہ۔ دانت یا کڑی کا کپڑا۔

الْقَدْحُ: تیر پتھر اور نصل کے۔ جوئے کا تیر۔ ج

قِدَاح و اَقْدَاح و قِدَاحَان و قِدَاحَان و ج

اَقَادِيحُ: کہا جاتا ہے ”صَدْفَهُمْ وَسَمِ قِدْجِهِ“

یعنی ان سے ج کما۔

الْقَدْحُ: پیئے کا برتن۔ چھوٹے اور بڑے دونوں

کیلے بولا جاتا ہے اور تدرج خالی برتن کو کہتے ہیں۔

اور جب اس میں پیئے کی کوئی چیز ہو تو اس کو کاس

کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ”لَا تَجْعَلُونِي كَقَدْحِ

الزَّوْكِبِ“ یعنی مجھ کو آخری مت بناؤ۔ اس لیے کہ

سوار سارے سامان کے رکھنے کے بعد پیالہ کو آخر

میں لگاتا ہے اور الْقَدْحُ الْفَرْدُ: کتابیہ ہے لے

پالک سے۔ ج اَقْدَاحِ الْقَدْحُ اسم ہے۔ اَقْتَدْاحُ

النَّارِ سے۔

الْقَدْحَةُ: قدح کا اسم نوع۔

الْقَدْحَةُ مِنَ الْمَرْقِ: بچہ بھر۔

الْقَدْحَةُ: پیالہ بنانے کا پیشہ۔

الْقَادِيحُ: فا۔ دانت یا درخت کی سیاہی یا کپڑا۔

کڑی میں شگاف۔

الْقَادِيحَةُ: قارح کا مونس۔ درخت یا دانت کا

کپڑا۔ ج قَوَادِيحُ: کہا جاتا ہے ”حُضِي قَادِيحَةٌ“

بہت تیز بخار۔

الْقَدَّاحُ: کاسہ گر۔ ترو تازہ پودے کے اطراف۔

نہات کے ٹھونے کھلنے سے پہلے ()

وَالْقَدَّاحَةُ: جھٹمان کا لوبا۔

الْقَدِيدِيحُ: شور بایادہ جو ہوائی کی تلی میں رہ جائے

اور مشکل سے بچے سے نکلے۔

الْاَقْدَاحُ وَالْقَدْوُحُ: کہی۔ رُكْبَتِي قَدْوُحٌ: وہ

کتواں جس میں سے ہاتھ سے پانی لیا جاسکے۔

الْمِقْدَحُ وَالْمِقْدَاحُ: جھٹمان۔ آگ نکالنے کا

تھرا لوبا۔

الْمِقْدَحُ وَالْمِقْدَاحَةُ: بچہ۔

اِقْدَحَ اَقْدَحًا خَوَازِا: الزَّجْلُ: ہدی یا گالی گولج

یا زبانی جھڑے کیلئے تیار ہونا۔

الْقَيْدُ خَوَرُ: مرد بد خو۔

الْقَدَّاحِسُ: مرد لاد اور بد خو۔ بے باک۔ شیر۔

قَدْر (ن ض) وَقَدِير (س) قَدْرًا وَقَدِيرَةٌ

وَمَقْدِيرَةٌ وَمَقْدِيرَةٌ وَمَقْدِيرَةٌ وَمَقْدَارًا وَقَدَارَةٌ

وَقَدْوَرَةٌ وَقَدْوَرًا وَقَدْرَانًا وَقَدَارًا وَقَدَارًا:

عَلَى الشئِ: توانا ہونا قوی ہونا۔

قَدْر (ض) قَدْرًا: الْأَمْرُ: تدبیر کرنا۔ الشئِ

بِالشئِ: اندازہ کرنا۔ مقدار کے مطابق کرنا (

_____ قَدَارَةٌ) الشئِ: تیار کرنا۔ وقت مبین

کرنا۔

قَدْر (ن ض) قَدْرًا: لَا مَرَكَةً: غمرو گھر کرنا۔

قَدْر (ن ض) قَدْرًا وَقَدْرًا: اللَّهُ: تعظیم کرنا (

_____ وَقَدْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَقَدْرَ لَهُ الْأَمْرُ:

فیصلہ کرنا۔ حکم لگانا۔ قَدْرَ الرِّزْقِ: تقسیم کرنا۔ قَدْرَ

وَقَدْرَ عَلَى عِيَالِهِ: اہل و عیال پر نان و نفقہ میں

تفکلی کرنا۔ قَدْرَ عَلَى الشئِ: قادر ہونا اور جمع

کرنا۔ وَقَدْرَ الزَّجْلِ: معاملہ کی درستی میں غمرو

گھر کرنا۔ وَقَدْرَ الشئِ بِالشئِ: اندازہ کرنا۔

مقدار کے مطابق بنانا۔

قَدْر (س) قَدْرًا: چھوٹی گردن والا ہونا۔

_____ عَلَى الشئِ: قدرت رکھنا۔

قَدْرًا وَقَدْرَ اللَّهُ فَلَانًا عَلَى كَذَا: قادر بنانا۔

وَالْقَدْرَ الْاِنْسَانُ: ہانڈی میں پکانا۔

قَادِرَةٌ مُقَادِرَةٌ: توانائی میں مقابلہ کرنا۔ اندازہ

کرنا۔ دوسرے کے کام کے مانند کام کرنا۔

بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: ایک کا دوسرے سے مقدار

معلوم کرنے کیلئے اندازہ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے

”فَلَانٌ يُقَادِرُنِي“ یعنی فلاں میرے ساتھ

ساوات کا طالب ہے۔

تَقَدَّرَ: الْقَوْبُ عَلَيْهِ: کپڑے کا مقدار کے

مطابق ہونا۔ لہ کذا۔ آمادہ ہونا۔

تَقَادَرَ الزَّجْلَانُ: ہر ایک کا دوسرے کی

ساوات کا طالب ہونا۔

اِنْقَدَرَ: اندازہ کے موافق ہونا۔ کہا جاتا ہے

قَدْرَتِ النَّوْبِ فَأَنْقَدَرُ یعنی میں نے کپڑے کا اندازہ کیا اور وہ اندازے کے موافق ہو گیا۔

إِنْقَدَرَ عَلَيْهِ: قوی ہونا۔ قدرت پانا۔
الزَّجَلُ: ہانڈی میں پکانا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ:
اندازہ کرنا۔

إِسْتَقْدَرُوا: اللہ خیراً: خدا سے نیکی کا حصہ
پانگنا،

الْقَدْرُ: مہ۔ چیز کی اتنا۔ بغیر کی زیادتی کے برابر
ہوتا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا قَدْرُ ذَاكَ" یہ اس کے
مماس اور مساوی ہے۔ طاقت و قوت۔ عزت و
وقار۔ تو انگریزی۔ کہہ سکتے ہیں۔ ج۔ اقدار۔

لَيْلَةُ الْقَدْرِ: رمضان شریف کے آخری
عشرہ میں کوئی طاق رات۔

الْقَدْرُ: ہانڈی (مؤنث) ج۔ قَدْرُ اور اس کی
تصغیر قَدْرِيَّةٌ وَقَدْرِيَّةٌ۔

الْقَدْرُ: مہ۔ چیز کی اتنا۔ طاقت و قوت۔ تقدیر
الہی ارادہ کا تعلق اسماء کے ساتھ ان کے اوقات
میں۔ ج۔ اقدار۔

الْقَادِرُ: نا۔ ہانڈی میں پکانے والا۔ ہانڈی کا پکا
ہوا۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَنَا لَيْلَةُ قَادِرَةٍ" ہمارے
درمیان ایسی رات ہے جس میں چنانہ آسان ہے۔

الْقَادِرَةُ: ایک جماعت ہے جو تقدیر الہی کا انکار
کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے اپنے افعال
اختیار سے کہ طوبی خالق ہیں اور جبر سے اس کے
خلاف ہے۔

الْقَدْرَةُ: فعل یا ترک فعل کی طاقت۔
الْقَدْرَةُ: چھوٹی شیشی۔ دو درختوں کے
درمیان کا فاصلہ۔

الْقَدْرُ وَالْقَدْرُ: قدرت۔

الْقَدْرُ: مہانہ قدر مرد۔ چست و چالاک لڑکا۔
پورچی۔ ہانڈی میں پکانے والا۔ بڑا اثر دار۔
الْقَدْرُ: چھوٹی ہانڈی کے بننے کی جگہ پر لگایا
جائے۔

الْقَدْرَةُ وَالْقَدْرَةُ: مصارف۔ اقدار۔ قوت۔
تو انگریزی۔

التَّقْدِيرُ: مہ۔ عند النحاة: کلمہ کو
حذف کرنا اور نیت میں باقی رکھنا۔ عند
المعكلمين: ج۔ اقدار کو اس کے اندازہ کے

مطابق کرنا۔ تقدیر الہی۔ ج۔ تقدیر۔

الْقَدِيرُ: قدرت والا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے
اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ ہانڈی میں پکا ہوا
گوشت۔

الْقَدْرُ: اسم تفضیل۔ پرستہ۔ قدر اور کہا گیا ہے کہ
چھوٹی گردن والا۔

الْقَدْرَاءُ: اقدار کا مؤنث۔ کان نہ بڑا نہ چھوٹا۔
بنو قَدْرَاءٍ: انصیاء۔

الجَفْدُ: توانائی۔ اندازہ۔ بیان۔ ج۔ مقادیر۔

المُقْتَدِرُ: نا۔ ہانڈی کا پکانے والا۔ کام کا ساتھی۔

ہر چیز کا وسط۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ مُّقْتَدِرٌ الْعُلُولُ"
مرد میانہ قامت۔

المُقَادِرَةُ: ننگ مکان۔

المُقَدَّرُ: مہ۔ فیصل شدہ معاملہ۔ کہا جاتا ہے
"أَمْرٌ مُّقَدَّرٌ عَلَيْهِ" یعنی ایسا امر جس کے کرنے پر
انسان قادر ہو۔

المُقَدَّرَةُ وَالْمُقَدَّرَةُ: قوت و
تو انگریزی۔ الْمُقَدَّرَةُ: قضاء و قدر۔ تقدیر
الہی۔

قَدَسٌ (ن) قُدْسًا وَقُدْسًا: پاک ہونا۔ بابرکت
ہونا۔

قَدَسَ: اللہ فلاناً: پاک کرنا۔ بابرکت کرنا
الزَّجَلُ اللُّهُ: تزیین کرنا۔ قدوس ہونے کی
صفت بیان کرنا۔ الْكَاهِنُ عِنْدَ النَّصَارَى

عشاء ربانی اور کہا۔ الزَّجَلُ: بیت المقدس
میں آنا۔ قَدَسَ لِيْلَهُ: پاکی بیان کرنا۔ اسی سے ہے
"نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ"

تَقَدَّسَ: پاک ہونا۔ القَدَاسَةُ: پاکی۔

الْقُدْسُ وَالْقُدْسُ: مصارف۔ المقدس۔ بیت

المقدس۔ و رُوح القدس۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام۔
و جَعْبَرَةُ الْقُدْسُ: جنت المقدس۔ وہ پتھر جو
پانی کی قلت و کثرت معلوم کرنے کے لیے کونین
میں ڈالا جائے۔

الْقُدْسُ وَالْقُدْسُ: چھوٹا پیالہ۔

الْقَادِسُ: بڑی کشتی۔ پتھر جو اڈنٹ کے پانی پینے
کی جگہ میں تقسیم کے لیے ڈالا جائے۔ ج۔
قَوَادِسُ: بیت حرام۔ اندلس کا ایک جزیرہ۔

الْقَادُوسُ: بجلی میں دانے ڈالنے کا برتن۔ عوام

اسے کور کتے ہیں۔ سر سے پانی نکالنے کا برتن۔ ج۔
قَوَادِسُ۔

الْقَدَاسُ: اُونٹوں کے حوض کے پانی کا اندازہ
کرنے کا پتھر۔ چاندی کا بنا ہوا موتی۔ بڑی شرافت۔
الْقَدَيْسُ: موتی۔

الْقَدُوسُ: سخت اقدام کرنے والا۔ سخت حملہ
کرنے والا۔

الْقَدُوسُ وَالْقَدُوسُ: باری تعالیٰ کے اسماء
میں سے ہے یعنی ہر نقص و عیب سے پاک۔

الْقَدَيْسُ: باصلاح نصاری۔ مقبول عند اللہ۔
مؤنث قَدَيْسَةٌ۔

الْمَقْدِسُ: مکان مقدس۔ پاک جگہ۔ بَيْت
الْمَقْدِسِ وَالْبَيْتُ الْمَقْدِسُ: یروشلیم۔ نسبت
کے لیے مَقْدِسِيٌّ وَمَقْدِسِيٌّ: اَرْضٌ مَقْدِسَةٌ
مبارک زمین۔ الْأَرْضُ الْمَقْدِسَةُ: فلسطین۔

الْمَقْدِسُ: نا۔ یہودی عالم۔ راہب۔
قَدَحٌ (ف) قَدَحًا الْقَدْحُ: گھوڑے کا دوڑنا۔

الْأَهْرُ: کر گزرتا۔ قَدْرَسَهُ
بِالْحَجَامِ: گھوڑے کو لگام سے روکنا۔

السَّفِينَةُ: کشتی کھینا۔ الْخَمْسِينَ مِنْ
عُمْرِهِ: تجاوز کرنا۔ مِنَ الشَّرَابِ:

گھونٹ گھونٹ پینا۔ الذَّبَابُ عَنْهُ بَكْدًا:
کسی چیز سے کبھی کو دفع کرنا۔ قَدَعَةٌ وَقَدَعَةٌ:
عن كَذَا: روکنا۔ اَقْدَعُ الزَّجَلُ: گالی رتنا۔

قَدَحٌ (س) قَدَحًا: رکانا۔ باز رہنا۔ قَدَعَتْ
عَيْنُهُ: زیادہ دیکھنے سے کمزور ہونا اور کہا جاتا ہے
"قَدَعَتْ عَيْنُ خَفْسُونٍ" میں تقریباً پچاس کی عمر
کو پہنچ گیا۔

قَادَعَهُ بَعِيْرَةٌ: کھلیں کرنا۔
تَقَدَّعَ لَيْلًا بِالشَّمْسِ: آمادہ ہدی ہونا۔

تَقَادَعُ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو دفع کرنا اور
کھینچنا۔ بِالرَّوْحِ: ایک دوسرے کو نیزہ
مارنا۔ تَقَادَعُ عَلَى الشَّيْءِ وَفِيهِ: جوق جوق کرنا۔
کہا جاتا ہے "تَقَادَعُ الذَّبَابُ فِي التَّمْرِي" شوروے
میں کھمیاں پے بہ پے کریں۔

الْقَوْمُ: پے بہ پے کرنا۔
اِنْقَدَعُ: روکنا۔ عَنِ الشَّيْءِ: شرم کرنا۔
الْقَدَحُ: بہت روئے والا۔ مَاءٌ قَدَحٌ: پانی جو

کھاری ہونے کی وجہ سے پانہ جاسکے۔
 اَمْرًا قَدِيحَةً وَقَدْرَعٌ - شرمیلی کم بولے والی عورت۔
 القَدَح - بڑی۔ کثرت گریہ سے نگاہ کی کمزوری۔
 القَدْحَةُ - چھوٹا سیدہ بند۔ انگلیا۔
 القَدْوَع - کسی چیز پر گرنے والا۔ ذلیل۔
 المَقْدَع - جھری دار۔
 المقْدَعَةُ - مورچل۔ کبھی ہانکنے کی چوری۔
 لامنی جس سے ہانکا جائے۔
 قَدَف (ن) قَدَفًا - القَدَاءُ - جلوسین۔ گرا تا۔
 القَدْف - مٹی کا گڑا۔ بڑا پال۔
 القَدْفِيلُ والقَدْفَوِيلُ - بڑے سروالا۔
 قَدَم (ن) قَدَمًا وَقَدْوَمًا - القَوْمُ - قوم سے سابق ہوتا۔
 قَدِيم (س) قَدْوَمًا وَمَقْدَمًا وَقَدَمَانًا
 الدِّيْبَةُ - شرمیں آنا۔ من سَفَرِهِ - سفر سے واپس ہونا۔ اِلَى الْاَمْرِ - بعد کرنا۔
 قَدَم (ن) وَقَدَم (س) قَدَمًا وَقَدَمًا وَقَدْوَمًا
 وَقَدَمٌ عَلٰی قَرْبِهِ - جرات کرنا۔ لہری کرنا۔ قَدَم
 وَقَدَمٌ عَلٰی الْاَمْرِ - بھاری کرنا۔ قَدَمٌ وَقَدَمٌ
 عَلٰی الْعَيْبِ - عیب پر راضی ہونا۔ وَقَدَمٌ يَمِيْنَا
 حَم كَمَا - اَقْدَمُ فَلَانًا - آگے بھانا۔ اَقْدَمَةُ
 التَّلْد - شہر کے آنے پر برا بھلا کہنا۔
 قَدَم (ك) قَدَمًا وَقَدَمَةً - پراتا ہونا۔ حدث کا ضد ہے۔ صفت قَدِيمٌ وَقَدِيمٌ۔
 قَدَمُ الْقَوْمِ - قوم سے سابق ہونا۔ قَدَمَةٌ - آگے کرنا۔ قَدَمٌ يَمِيْنَا - حَم كَمَا - بَيْنَ يَدَيْهِ - آگے بڑھنا۔ اِلَيْهِ بِكَذَا - حَم رِبًا - قَدَمٌ اِلَى الْاَسَاطِيظِ - قَرِيبٌ كَرًا - تَقَادِمٌ - بمعنی قَدَمٌ پراتا ہونا۔ تَقَدَّمَ - آگے بڑھنا۔ بہت پیش قدمی کرنے والا ہونا۔ تَقَدَّمَ هُوَا - تَقَدَّمَ هُوَا - القَوْمُ - قوم سے سابق ہونا۔ اِلَيْهِ بِكَذَا - حَم رِبًا - كَمَا جَاتَا هُوَا - فَلَانٌ يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْ اَيْتِهِ - فُلَانٌ اَيْتِهِ بَابِ كَمَا جَاتَا هُوَا - بمعنی تَقَدَّمَ۔ آگے بڑھنا۔ اِسْتَقَدَّمَ - بہت پیش قدمی کرنے والا ہونا

الزَّجَلُ: آنے کو کنا۔ الْقَوْمُ: آگے کو بڑھ جانا۔
 القَدَم - خاندانی شرافت۔ سرخ کپڑا۔
 القَدَم - پراتا زمانہ۔ کما جاتا ہے كَانَ كَذَا قَدَمًا یعنی ایسا پرانے زمانہ میں تھا۔
 القَدَم - حدوث کا ضد۔ اَزَلت - کما جاتا ہے لَذَةُ قَدَمٌ فَيَنْ هَذَا الْاَمْرُ اس کو اس معاملہ میں اَزَلت ہے۔
 القَدَم - پاؤں (مؤنث ہے اور کبھی مذکر بھی مستعمل ہے) ج اقدم و قدام اور تصغیر قَدَيْمَةٌ۔
 القَدَم - آگے بڑھنا۔ اَزَلت چاہے خیر میں ہو یا شر میں۔ کما جاتا ہے "لِفَلَانٍ فِي كَذَا اَقْدَمْتُ صَدَقِي اَوْ قَدَمْتُ سُوِيًا" یعنی فلاں کیلئے اس معاملہ میں اچھی اَزَلت یا بُری اَزَلت ہے۔ و "لِفَلَانٍ عِنْدَ فُلَانٍ قَدَمٌ" یعنی فلاں کا فلاں پر احسان ہے۔ و "وَضَعُ قَدَمَةً فِي الْعَمَلِ" یعنی شروع کر دیا "جَعَلَ دِمَاحَهُمْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ" ان کے خون کو اپنے قدم کے نیچے کر دیا یعنی معاف کر دیا "وَاَجْعَلَ ذَلِكَ تَحْتِ قَدَمِيكَ" اس کو اپنے قدم کے نیچے کر دو۔ یعنی معاف کر دو۔ والقَدَمُ فِي الْقِيَامِ: پاؤں کے اُٹھانے کے کنارے سے اِزَلت کے کنارے تک۔
 القَدَم: بھاری (مذکر و مؤنث مفرد جمع) کما جاتا ہے زَجَلٌ قَدَمٌ اَمْرًا قَدَمٌ وَرَجُلًا قَدَمٌ وَبِسَاءَةٍ قَدَمٌ اور کما جاتا ہے "هُوَ ذُو قَدَمٍ" یعنی وہ بھاری ہے۔
 القَدَم: بہت اقدم کرنے والا سخت سگستان۔
 القَدَمُ والقَدَمُ - دیر۔ القَدَم: آگے گزرنے والا کما جاتا ہے "مَضَى قَدَمًا" وہ سیدھا گیا ادھر ادھر میں مڑا، مذکر و مؤنث دونوں کی صفت میں واقع ہوتا ہے۔
 القَدَمَةُ - دیری۔ معاملہ میں اَزَلت۔
 القَدَيْمَةُ - مفرد و جمع۔
 القَدْوَم - دیر بہت پیش قدمی کرنے والا۔ ج قَدَمُ القَدْوَم - کماڑا۔ مؤنث ہے ج قَدَمٌ وَقَدَائِمٌ (اور قَدْوَمٌ ضعیف لغت ہے)۔
 القَدَيْمَةُ - مع۔ قَدَمٌ کا: ہر ج قَدَام۔
 القَادِم - قا۔ ج قَدْوَمٌ وَقَدَامٌ وَقَادِمُونَ - قَادِمُ الْاِنْسَانِ: انسان کا سر ج قَوَادِمٌ قَادِمُ الزَّجَلِ:

کجاوہ کا اگلا حصہ۔ الْعَامُ الْقَادِم - آئندہ سال القَادِمُ مِنَ الْاَطْبَاءِ وَالضَّرْفِ: اُدنی اور گائے کے تھن کی اگلی باکھ۔
 القَادِمَةُ - مؤنث قادم۔ الفکر۔ القَادِمَةُ: بازو کے اگلے پر جو بڑے ہوتے ہیں ج قَوَادِمٌ و قَدَائِمٌ اور چھوٹے تروں کو خواہی کہتے ہیں جو قَوَادِمٌ کے نیچے ہوتے ہیں۔ وَقَادِمَةُ الزَّجَلِ - کجاوہ کا اگلا حصہ۔ ج قَوَادِمٌ وَقَادِمَةُ الْعَسْكَرِ: فوج کا اگلا حصہ۔
 القَدِيمُ والقَدَام - پراتا۔ ج قَدَمَاءٌ وَقَدَائِمٌ وَقَدَائِمٌ مؤنث قَدِيمَةٌ ج قَدَائِمَاتٌ وَقَدَائِمٌ۔
 القَدَائِمُ: فوج کا اگلا حصہ۔
 قَدَامٌ - آگے۔ مؤنث ہے اور اس کی تصغیر قَدَيْمَةٌ اور کبھی مذکر مستعمل ہوتا ہے اس کی تصغیر قَدِيدِمٌ آئی ہے۔ کما جاتا ہے لَقَيْتُهُ قَدَامٌ ذَاكٌ اَوْ قَدَيْمَةً ذَاكٌ یعنی میں نے اس سے اس کے پہلے یا کچھ پہلے ملاقات کی۔
 القَدَامُ والقَدَامُ والقَدِيم - شرافت کی وجہ سے لوگوں میں آگے رہنے والا۔ سردار۔ بادشاہ القَدَام: تصانی۔
 القَدَمَةُ - مِنَ الْعَنَمِ - چرنے میں جو ہم کی سب سے آگے ہو۔ سخت سگستان۔
 القَدِيمُ والقَدِيمُ - اگلا حصہ۔
 قَدِيمٌ وَالْحَبْلُ: پہاڑ کا آگے کو نکلا ہوا حصہ۔
 الْاَقْدَم - اسم تفضیل - شیر۔
 الْمَقْدَم - آنے کا وقت۔
 الْمَقْدَمُ وَالْمَقْدَمُ - مِنَ الْعَيْنِ: ناک سے ملا ہوا آنکھ کا گوشہ۔ مِنَ الْوَجْهِ: چہرہ کا وہ حصہ جو سامنے ہو۔ مِنَ الزَّجَلِ: کجاوہ کا اگلا حصہ ج مقادیم۔
 الْمَقْدِمَةُ وَالْمَقْدِمَةُ مِنَ الْحَيْشِ: فوج کا اگلا حصہ۔ ہر ازل۔ مِنَ الْكِتَابِ: دیناچہ وَالْمَقْدِمَةُ مِنَ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا شروع۔ پِشَانِيٌّ؛ پِشَانِيٌّ كَالْبَل - موقوف علیہ چاہے عقلی ہو یا عاقل یا انسانی۔
 المقْدَامُ وَالْمَقْدَامَةُ - بہت پیش قدمی کرنے والا۔ اَسْبَابُہُ كَالْبَل - ج مقادیم۔ کما جاتا ہے هُوَ يَشِي (القَدِيمَةُ وَالْقَدِيمَةُ وَالْقَدِيمَةُ)

المَقْدُ - گدی۔ سرکے بالوں کے نکلنے کی استیصال
 جگہ پیچھے کی طرف یا آگے کی طرف۔ سرکے بالوں
 کے کاٹنے کی جگہ آگے پیچھے کی طرف۔
 المَقْدُو المَقْدَةُ - تراشے کا آلہ۔
 المَقْدُذ والمَقْدُذُ - بال تراش کر ہموار کیا
 ہوا۔ ہرچہ ہموار اور لطیف۔ آراستہ و ہیرا ستہ۔
 المَقْدُذَةُ والمَقْدُذَةُ - گول کان۔
 تَقْدُذُ فِی الْجَنَّةِ - پہاڑ پر چرنا۔
 الزَّكِيَّةُ - کتوئیں میں گرنا اور مرنا۔
 الزَّجَلُ - خود رائے ہونا۔
 قَادَحَهُ مَقَادَحَةً - گالی گلوچ کرنا۔
 تَقْدَحُ يَفْلَحُ بِالْشَّرِّ - شرارت کرنا۔
 قَدَّرَ (ن) وَقَدَّرَ (ك) وَقَدَّرَ (س) قَدَّرَا
 وَقَدَّرَا - گندہ ہونا۔ میلا ہونا۔ صفت قَدَّرَ وَقَدَّرُوا
 وَقَدَّرُوا وَقَدَّرُوا۔
 قَدَّرَ (ن) قَدَّرَا وَقَدَّرَ (س) قَدَّرَا وَقَدَّرَ
 الشَّيْءَ - گندہ کرنا۔ قَدَّرَ الشَّيْءَ - کمرہ جانا۔ پرہیز
 کرنا۔ گندہ سمجھنا۔
 أَقْدَرُ - گندہ پانا۔
 أَقْدَرُ فُلَانًا - نیک
 دل کرنا۔ بہت بولنا۔
 تَقَدَّرَ الشَّيْءُ وَهِنُهُ - میل پھیل کی وجہ سے
 کمرہ سمجھنا۔
 القَدَّرُ - میل پھیل اور کبھی پانچمانہ کے
 لئے بولا جاتا ہے جِ اقْدَاءُ اور مقَادِرُ خلاف
 قیاس۔
 القَادُورَةُ - ہدی۔ فاحشہ جِ قَادُورَاتُ۔
 القَادُورَةُ والقَادُورُ والقَادُورُ
 وَذُو قَادُورَةٍ - جو بد خلقی کی وجہ سے لوگوں سے
 نہ ملے، جو کسی چیز کو بوجہ نفرت کے نہ کھائے۔
 القَادُورُ مِنَ النِّسَاءِ - مردوں سے الگ تھلک
 رہنے والی۔ نیک و شہ سے دور۔
 رَجُلٌ قَدُورٌ - ملامت سے دور مرد۔
 رَجُلٌ مَقْدُورٌ - مرد جس سے لوگ پرہیز کریں۔
 المَقَادِرُ - گندہ گیاں۔
 المَقْدِرُ - فواحش کا ارتکاب کرنے والا۔ جِ
 مَقْدُورُونَ۔
 القُدُورُفُ - عیب۔ جِ قَدَارِيفُ۔
 قَدَعَةُ (ف) قَدَعًا - گالی دینا۔ بیہودہ کہنا۔

قد مزید اور خوشبودار ہے۔
 قَدَى يَقْدِي قَدِيَا الطَّعَامُ - بمعنى قَدَا يَقْدُو
 مزید اور خوشبودار ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "قَدَّتْ
 قَادِيَةً" قح زدہ قوم کا دیہات سے آنا۔
 قَدِيَانَا الفَرَسُ - گھوڑے کا تیز دوڑنا۔
 قَادِي مَقَادَاةً - الرُّجُلُ - متابلہ کرنا۔
 تَقْدِي - ناز سے چلنا۔
 القِدَّةُ - ایک قسم کا سانپ جِ قِدَاتُ - القِدَّةُ -
 پٹیوا۔
 القَدِي والقَدِي - مقدار۔ اندازہ۔ کہا جاتا ہے
 "يَنْهَمَا قَدِي زَمِيحٌ" ان دونوں کے درمیان
 ایک نیزہ کی مقدار ہے۔
 القِدِيَّةُ - قَدِي کا اسم نوع۔ روش۔ طریقہ۔ سیرت۔
 کہا جاتا ہے "خُذْ فِي هَذِيكَ وَقِدِيكَ" اپنی
 روش و طریقہ پر لو۔
 القَادِيَةُ - دیہات سے آنے والی قح زدہ قوم جِ
 قَوَادٍ۔
 المُنْقَدِي - فا۔ شیر۔
 القَدِيَّةُ - ہدیہ۔
 قَدَّ (ن) قَدَّا - الرِّيشُ - تیر کے پر کے اطراف کا
 کاٹنا اور ہموار کرنا۔ الزَّجَلُ - گدی پر مارنا۔
 الحَجْرُ وَكُلُّ غَلِيظٍ - پتھر اور ہر قسم کی
 سخت چیز جِ یکناکا۔ وَقَدَّ الشَّعْرُ - بال کاٹنا اور
 برابر کرنا۔ قَدُّوا أَقْدَ السَّهْمِ - تیر میں پر لگانا۔
 تَقَدَّذَ القَوْمُ - قوم کا متفرق ہونا۔
 القُدَّةُ - تغیر کا پر۔ القُدَّةُ - گھوڑے اور انسان کا
 کان۔ جِ قُدُّو قُدَّا - بسوج قُدَّان وَقُدَّ -
 القُدَادَةُ - پر کا تراشہ۔ سولے وغیرہ کا ریزہ جِ
 قُدَادَاتُ - کہا جاتا ہے "إِنَّ لِي قُدَادَاتٍ وَ
 جُدَادَاتٍ" قُدَادَاتُ سونے کے ٹکڑے۔ اور
 جُدَادَاتُ چاندی کے۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ لَا يَدْعُ
 شَادَّةً وَلَا قَادَّةً" یعنی وہ دلاور جس کو دیکھتا ہے ہار
 ڈالتا ہے۔
 سَهْمٌ أَقْدٌ - پر دار تیر بے پر کا تیر جِ قُدُّنَجُ قُدَادُ -
 کہا جاتا ہے "مَالَةٌ أَقْدٌ وَلَا مَيْتٌ" یعنی اس کے
 پاس کچھ نہیں۔
 القُدَانُ - بڑھاپے کی وجہ سے دونوں کپٹی کی
 سفیدی۔ پرندہ کے بازو۔ ن۔ سف۔

جبکہ میدان جنگ میں چلے اور دشمن پر حملہ
 کرنے میں پیش قدمی کرنے والا ہو یا جب کہ
 مکارم و فضائل میں سبقت کرے اور اس کی
 تقدیر یوں ہے کہ "مَشَى المَشِيَةَ المُنْسُوْبَةَ
 إِلَى قَوْلِ النَّاسِ يَقْدُمُ وَيَقْدُمُ"۔
 القُدْمُوسُ والقُدْمَاسُ - پڑانا۔ کہا جاتا ہے
 "بِمَا وَاحِدًا" قَدْمُوسٌ وَقَدْمَاسٌ - خاندانی
 عزت۔
 القُدْمُوسُ والقُدْمُوسَةُ - بڑی چٹان۔
 القُدْمُوسُ والقُدَامِيسُ - سخت۔ القُدْمُوسُ -
 ہراڑ۔ لشکر کا اگلا حصہ جِ قُدَامِيسُ - حینش
 قُدْمُوسُ بڑا۔ القُدْمُوسَةُ - بڑے ذیل ڈول کی
 عورت۔
 القُدْنُ - کافی۔ کہا جاتا ہے "قُدْنٌ زَيْدٌ زَهْمٌ"
 زید کیلئے ایک درہم کافی ہے۔
 قَدَّ يَقْدُو وَقَدُّوا - قریب ہونا۔ ستر سے واپس
 ہونا۔ بھہڑنا۔ گھوڑے کا تیز دوڑنا۔
 قَدَّ يَقْدُو وَقَدُّوا وَقَدِي يَقْدِي وَقَدَاةً
 وَقَدَاةً الطَّعَامُ - کھانے کا مزید اور خوشبودار
 ہونا۔ صفت قَدُو وَقَدِي تم کہتے ہو "سَمَمْتُ
 قَدَاةً القُدْرُ - ہانڈی کی خوشبو کو میں نے سوگھا۔
 أَقْدَى إِقْدَاءً - خیر اور امور دینیہ میں
 استقامت اختیار کرنا، بوڑھا ہونا اور موت کے
 قریب پہنچنا۔ مِنَ السَّفَرِ - ستر سے واپس
 آنا۔
 المِسْكُ - مشک کی خوشبو کا بھرا کرنا۔
 تَقْدَى تَقْدِيًا - علی دَابَّتِهِ - چوپایہ پر سوار ہو
 کر وسط راستہ میں چلنا۔ تَقْدَتِ الدَّابَّةُ
 بُرَاكَهَا چوپایہ پر سوار ہو کر وسط راستہ پر لے
 جانا۔
 اِقْدَى إِقْدَاءً بِفُلَانٍ فِي كَذَا - بیروی کرنا۔
 القُدَاءُ - ہم۔ خوشبو۔
 القُدُو - جڑ سے شاخیں نکلیں۔
 القُدُو - استقامت۔ پائیداری۔
 القِدَّةُ والقُدُوَّةُ والقُدُوَّةُ والقُدُوَّةُ
 والقِدْبَةُ - پیٹوا۔ اسوہ۔ جیسے "لِي بَكَ قُدُوَّةٌ"
 میرے لیے تمہارے اندر اسوہ ہے۔ کہا جاتا ہے
 "مَا أَقْدَى طَعَامٌ فُلَانٍ" یعنی فلاں کا کھانا کس

القذع۔ فلاناً: گالی دینا۔ فلان: سخت
سخت کہنا۔ القون: بڑا کتا۔
الزجل: فواحش کا ارتکاب کرنا۔
قاذعہ: گالی گلوں کرنا۔
قذع: نڈوہ: کپڑے کو گند کرنا۔ ملا کچلا کرنا۔
تقذع: لہ بالشر: تباری کرنا۔
الزجل: تاپیند کرنا۔
القذع: گند۔ بے حیائی و وحش۔
القذع: گندگی والا۔ بے حیاء۔ فواحش کا ارتکاب
کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "زمانہ بالمقذعات او
المقذعات" اس نے اس پر فواحش کی تہمت
لگائی۔
القذخل: بے قدر۔ زلیل۔
القذعیل: موٹا اونٹ۔ القذعیل: بہت
بوڑھا۔
القذعۃ: بہت قامت۔ خمس عورت اور
کہا جاتا ہے "ما عنده قذعۃ" اس کے پاس
کچھ نہیں "وما فی السماء قذعۃ" آسمان
میں کچھ بھی بادل نہیں۔
قذف (ض) قذفاً: تے کرنا۔
المسأخ: چیروے کشتی چلانا۔ قذف بقولہ: بغیر
سمجھے ہوئے بک دینا۔ الحجر و
بالحجر: پھینکانا۔ قذفاً بکذا: تہمت لگانا۔ کہا
جاتا ہے "ہم بین حادف و قاذف" وہ لوگ
ڈھیلا پھینکنے والے اور لاٹھی مارنے والے کے
درمیان ہیں (۔ واستقذف) فلاناً
بالحجر: پتھر مارنا۔ الزجل: تہمت
لگانا۔
قاذفہ: ایک دوسرے کو تہمت لگانا اور گالی
دینا۔
تقاذف الماء: پانی کا تیز بہنا۔
القوس: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ القوس:
آپس میں گالی گلوں کرنا۔ تقاذفوا بالحجارة:
ایک دوسرے پر پتھر پھینکانا۔ تقاذفت بہ
الامواج: تھجڑے مارنا۔ اور کہا جاتا ہے
"تقاذفت بہ الایوب" دروازوں نے دکھایا۔
یعنی لوہی قوس کسی دروازے میں داخل ہونا
چاہتا تھا کہ مالک مکان نے دروازہ بند کر دیا اور وہ

مخمس دوسرے دروازہ پر جانے کے لیے مجبور ہوا
اور وہاں بھی کسی معاملہ پیش آیا۔
انقذف: پھینکانا۔
القذف والقذف والقذف: جانب۔ گوشہ۔
القذف والقذف: پھسلنے کی جگہ۔
القذف والقذف والقذوف والقذیف:
دور۔ کہا جاتا ہے "فلاۃ اوتینہ قذف وقذف"
دور کا بیابان۔ "بلدۃ قذوف" دور دراز کا شہر
"قوس قذوف" تیر کو دور پھینکنے والی کمان۔
ناقۃ قاذف وقذاف وقذوف وقذوف: تیز
دوڑنے والی اونٹنی۔
القذفۃ: جانب۔ گوشہ۔ سنگرہ۔ ہاڑ کا گوشہ جو نکلا
ہوا ہوج قذاف وقذف وقذف وقذفان۔
اقذاف القصر: محل کے کتھرے۔
القذیفۃ والقذاف: برہہ چیز جو پھینکی جائے۔
ج قذائف اور اسی سے ہے قذائف المدافع:
توپ کے گولے۔ القذاف: تیز روی۔
القذاف: تھوڑا پانی۔
القذاف: اسم مبالغہ۔ سواری۔ ترازو۔ گوچھن۔
مہینق۔ برہہ چیز جس سے کسی چیز کو دور تک پھینکا
جائے۔
المقذف: لعنت کیا ہوا۔ بڑا گوشہ۔ کہا جاتا ہے
"قارص مقذف" جنگ آزمودہ شہسوار۔
المقذف: چیرو۔ ج مقاذف المقاذف:
ہلاکتیں۔
المقذاف: چیرو۔ ج مقاذیف۔
قوس مقذاف: تیز رفتار گھوڑا۔ سینو
مقذاف: تیز چال۔
القذیفۃ: سب اندازی۔ دشنام دی۔
قذلہ (ن) قذلاً: گدی پر مارنا۔ عیب لگانا۔ چیچھا
کرنا۔ قذل فلان: برگشتہ ہونا اور ظلم کرنا۔
یعنی الامر کو شش کرنا۔
القذل: عیب۔
القذال: گدی۔ سر کا پھیلا حصہ۔ ج قذل
واقذلہ۔
قذم (ن) قذماً: لہمین المال۔ مال یکبارگی دینا۔
قذم (س) قذماً الماء: پانی کا گھونٹ لینا۔
انقذم: تیز دوڑنا۔

القذمۃ: پانی کا گھونٹ۔
القذم والقذم: بہت دینے والا سردار۔
القذم والقذم من الآبار: بہت پانی والا
کنواں۔
ینقذوم: بہت پانی والا کنواں۔ ج قذم۔
القذیمۃ: مال کا ایک حصہ جو آدمی کسی کو
دے۔ ج قذائم۔
القذمور: چاندی کا دسترخوان۔
القذامل: چوڑا۔ کشادہ۔
القذن: الزجل: بہت عیب دار ہونا۔
قذی یقذی قذی وقذباناً وقذباناً: آگھ میں
تکا پڑنا۔ آگھ کی صفت (قذیۃ وقذیۃ ومقذیۃ)
القذراب: پینے کی چیز میں تکا پڑنا۔
قذی یقذی قذی وقذی وقذی وقذی وقذی وقذی وقذی
آگھ کا کچھ لگانا۔ کہا جاتا ہے قذت قاذیۃ لوگوں
کی جماعت آئی۔
اقذی عینہ: آگھ میں خس و خاشاک ڈالنا۔
قذی عینہ: آگھ سے خس و خاشاک نکالنا۔
قاذی مقاذاً الزجل: بدلہ دینا۔
انقذی: الظایر: سر کھجلائے ہوئے آگھ سے
تکا لگانا۔
القذی: تکا۔ خس و خاشاک۔ محاورہ ہے۔
"فلان یقضی علی القذی" یعنی فلاں ظلم
برداشت کرتا ہے اور شکایت نہیں کرتا۔ "صبار
الامر قذی فی عینہ" یعنی معاملہ نے اس کو
تکلیف پہنچائی اور اس نے اس کے ازالہ کی
کوشش کی۔ اور امثال عرب میں سے ہے یتصو
أخذکم القذی فی عین آخینہ ویعمی عن
الجذع فی عینہ: دوسرے کی آگھ کا تکا دیکھتا
ہے اور اپنی آگھ میں شیشہ نہیں دیکھتا۔ یعنی
دوسرے کے توجھوئے چھوئے عیوب پر نظر
رکھتا ہے مگر اپنے بڑے بڑے عیوب کو نظر انداز
کرتا ہے۔
القذاة: تکا۔ خس و خاشاک۔
القواذی: جمع ہے قاذیۃ کی۔ قاذیۃ لوگوں کی
جماعت جو اول تمہارے پاس آئے۔
القذی: باریک خاک۔ ج قذی واقذاء:
کہا جاتا ہے زجل قذی العین: وہ شخص جس کی

آلہ میں نکال دیا ہو۔

الأقْدَاءُ - معمولی درجہ کے لوگ۔

قَرَأَ (ن ض) قَرَأَ - اليَوْمَ : دن کا ٹھنڈا ہونا۔

قَرَأَ (ن ض) قَرَأَ القَيْدَ : ہانڈی میں ٹھنڈا پانی

ذاتنا _____ عَلَيْهِ المَاءُ : ٹھنڈا پانی ڈالنا۔ کما جاتا

ہے "قَرَأَ الكلامَ لَمِنَ اذْنَيْهِ" کان سے منہ لگا کر

بات کی۔

قَرَأَتْ (ن قرینہ) الحَيَّةُ : سانپ کا پھینکارنا۔

_____ قَرَأَ وقرئوا) الذَّجَاجَةُ : مرثی کی

کڑکڑاہٹ کا بند ہونا۔

قَرَأَتْ (س ض) قَرَأَ وَ قَرَأَتْ وَ قَرَأَتْ عَيْنُهُ :

خوشی کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہونا۔ مُضَعُ

صفت قرینہ اور آنکھ کی صفت قرینہ۔

قَرَأَ (س ن) قَرَأَا وَ قَرَوَا وَ قَرَأَا وَ تَقَرَّأَا

وَ تَقَرَّأَ لِمَنِ المَكَّانُ او عَلَى الامرِ : قرار پکڑنا۔

ثابت رہنا۔ ٹھہرنا۔

قَرَوَا وَ قَرُوا - سردی زدہ ہونا۔

قَرَوَهُ - بِالامرِ : اقرار کرنا _____ هُ عَلَى

الحَقِّ : حق منواتا _____ هُ فِي المَكَّانِ او عَلَى

العَمَلِ : ٹھہرنا۔ باقی رکھنا۔ کما جاتا ہے قَرَوْتُ

عِنْدَهُ الخَيْرِ - حَتَّى اسْتَقَرَّ یعنی میں نے اس کے

پاس خیر کو ثابت کیا۔

قَرَأَ مَقَارَةَ الزُّجُلِ : موافقت کرنا۔ قَرَأَ فِي

الصَّلَاةِ : سکون اختیار کرنا۔ حرکت وغیرہ نہ کرنا۔

أَقْرَأَ قَرَأَا - فَلَأْنَا فِي المَكَّانِ : ٹھہرنا

_____ العَامِلِ عَلَى العَمَلِ : کام پر باقی رکھنا

_____ بِالْحَقِّ : مان لینا۔ اقرار کرنا _____

الْكَلَامَ لَهُ : بیان کرنا۔

_____ الظَّائِرِ فِي عَيْشِهِ : پرندہ کو گھونسلے میں

باقی رکھنا _____ اللُّهُ عَيْنُهُ وَ لَعْنَتُهُ : آنکھیں

ٹھنڈی کرنا یعنی خواہش کے مطابق دینا اور

کامیاب کرنا۔

_____ الزُّجُلِ : ٹھہرنا۔ تابعدار ہونا۔ ٹھنڈک

میں داخل ہونا _____ اللُّهُ الزُّجُلِ : سردی

پہنچانا۔ سردی زدہ کو خلاف قیاس مقفوز کہتے ہیں

اور مقفوز نہیں کما جاتا _____ القَيْدَ : ہانڈی سے

چھٹی ہوئی چیز کو اتارنا۔ أَقْرَبُ النَّافَةِ : اونٹنی کا

حاصل ٹھہرنا۔ صفت مقفوز۔

تَقَرَّرَ - ثابت ہونا۔ تَقَرَّرَ القَوَّةَ : ہانڈی کی چمچی

ہوئی چیز کو لیٹا اور سائل بنانا۔

تَقَرَّرَ لِمَنِ المَكَّانِ : ٹھہرنا اور ثابت رہنا۔

اِقْتَرَّ - فَلَأْنَا فِي العَمَلِ وَ عَلَيْهِ : باقی رکھنا۔

الزُّجُلِ : ہانڈی کی چمچی ہوئی چیز کو سائل بنانا۔

ٹھنڈے پانی سے نمانا۔

اِقْتَرَّتْ وَ تَقَرَّرَتْ الابلُ : آسودہ ہونا۔ بست

مونا ہونا۔

اسْتَقَرَّ بِالْمَكَّانِ : ٹھہرنا۔ ثابت رہنا۔

القَرَّةُ - مع - مردوں کی سواری جو کجاوہ اور زین

کے درمیان ہوتی ہے اور کما گیا ہے کہ ہودج کو

کہتے ہیں۔ قَرَأَ القَرَبَ : کپڑے کی۔ یَوْمَ القَرَبِ : ماہ

ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ کہ اس روز حاجی منیٰ

میں ٹھہرتے ہیں۔ یَوْمَ قَرَّ : ٹھنڈا دن لَبْلَبَةُ وَ قَرَّةُ :

ٹھنڈی رات۔ القَرَّتَانِ : صبح شام

القَرَّةُ - ٹھنڈک۔ کسی جگہ میں قرار۔ ٹھہرنے کی

جگہ۔ اور اسی سے ہے "وَقَعْتُ بِقَرَّةٍ" یعنی جس

چیز کے تم خواہش مند اور امیدوار تھے اس کو تم

نے پایا۔ مثلاً طالب تصاص سے جبکہ وہ تصاص

لے لے تو کما جاتا ہے۔

القَرُّ : ایک لمبا سا کیزا جو پانی کی سطح پر پھلتا رہتا ہے

اور اس سے قَرَوْتُ کی آواز نکلتی ہے اسی وجہ سے

اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔

القَرَائِدُ - درزی۔ قصائی۔ شہری جو کسی کا

احسان نہ لے اور ہریشہ ور۔

القَرَارُ وَ القَرَارَةُ - ٹھہرنے کی جگہ۔ سکون و

اطمینان حاصل ہونے کی جگہ۔ کما جاتا ہے "صَارَ

الامرُ اِلَى قَرَارِهِ" یعنی انتہا کو پہنچ گیا۔ القَرَارُ : کسی

مسئلہ میں جس پر رائے ٹھہرے۔ اَهْلُ القَرَارِ :

شہری لوگ کہ وہ اپنے مکانات میں قیام کرتے ہیں۔

بخلاف اہل بدو کے کہ وہ خانہ بدوش ہوتے ہیں

ذَا القَرَارِ : دار آخرت۔ القَرَارَةُ : پستہ قد گول

گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔

القَوَّةُ - قَوَّ کا اسم نوع۔ ٹھنڈک۔ عرب کے امثال

میں سے ہے "جِزَّةٌ عَلَى قَوَّةٍ" اس شخص کے لئے

کما جاتا ہے جو ضمیر کے خلاف ظاہر کرے۔

القَوَّةُ - او قَوَّةُ العَيْنِ : ایک قسم کی گھاس جو پانی

کے بہنے کی جگہ میں ہوتی ہے اور یہ ہجر کے علاوہ

ہے اس لیے کہ ہجر کڑوی اور یہ بھی ہوتی

ہے۔ کما جاتا ہے "هُوَ قَوَّةٌ عَيْنِي" وہ میری

آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ "اَبُو قَوَّةٍ"

مرگت کی کنیت۔ اس لیے کہ سردی کا غلبہ اس

پر بہت ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ہمیشہ آنکھ

کے سامنے رہتا ہے۔

القَرَوُ وَ القَرَوُ القَوَّةُ - مینڈک۔

القَرَوَةُ وَ القَرَوَةُ وَ القَرَوَةُ وَ القَرَوَةُ ہانڈی کی

تلی میں جو لوگ جائے۔ ہانڈی کی کھرچن۔

القَرَوِيُّ - سختی جو پرہیز کرنے کے باوجود واقع

ہوئے۔

القَرَوَةُ وَ القَرَاةُ وَ القَرَاةُ وَ القَرَاةُ

وَ القَرَوَةُ - پانی جو پکا لینے کے بعد ہانڈی میں ڈالا

جائے تاکہ چلنے نہ پائے۔

القَرَوِيُّ - ٹھنڈا پانی

القَرَوِيُّ - آنکھ کا علاج۔ تریا خشک سمجھوں کا

برتن۔ شرب کا برتن۔ قَرَوِيُّ القَرَوِيُّ

القَرَوِيُّ وَ القَرَوِيُّ - شوت۔ سکون۔

القَرَاةُ - تا _____ یَوْمَ قَرَأَ : ٹھنڈا دن۔

القَرَاةُ - مؤنث۔ قَرَأَ - عَيْنُ قَرَاةً : ٹھنڈی

آنکھ۔ کتابیہ سرد ہونے سے۔

الاقْرَأَ - اسم تفضیل۔ کما جاتا ہے "اِنَّی الْاَيَّامَ

اقْرَأُ" کون سا دن ٹھنڈا ہے۔

المَقْرَأُ - ٹھہرنے کی جگہ۔ مَقْرَأٌ - مَقْرَأُ البُیُوتِ :

کوسوں کی تلی میں گڑھا جس میں پانی جمع ہوتا ہے۔

المَقْرَأَةُ - پانی کا حوض۔ گڑھا۔

المَقْرُوْرُ - ٹھنڈا۔ سردی زدہ۔

قَرَأَ (ن ن) قَرَأَ وَ قَرَاءَةً وَ قَرَأْنَا وَ اقْرَأُوا

الکتابَ : پڑھنا۔ قَرَأَ (ن ن) قَرَاءَةً - عَلَيْهِ

السلامَ - سلام پہنچانا۔ اور امر کی صورت میں

"اقْرَأْ عَلَيْهِ السلامَ" کما جاتا ہے۔ اور اس کا

تعدیہ بنفسہ غلط ہے اس لیے اقْرَأَ السلامَ نہیں

کہنا چاہیے (_____ قَرَأَ وَ قَرَأْنَا) الشَّيْءَ : جمع

کرنا کما کرنا _____ النَّافَةَ : اونٹنی کا حاملہ ہونا

_____ الحَامِلُ : حاملہ کا جننا۔

قَرَأَ اقْرَأُوا وَ مَقْرَأَةً - شریک درس ہونا۔

اقْرَأَهُ اقْرَأَهُ - الزُّجُلِ : پڑھانا _____ هُ

السلامَ - سلام پہنچانا۔ اقْرَأَ مِنْ السَّفَرِ : سفر سے

واپس ہونا _____ الأمور: قریب ہونا _____
عنتہ پھرنا۔

_____ التلجم: ستارہ کا غروب ہونا _____
الزجل: عبادت کرنا _____ الحاجة:
ضرورت کو موخر کرنا۔ اقربآب الریاح: ہوا کا
وقت پر چلنا _____ زیادہ پیچھے ہٹنا _____
الحاجة: حاجت کا موخر ہونا۔

تَقَرَّبَ: عبادت کرنا، فقیر ہونا، عالم ہونا۔
استَقْرَبَ استَقْرَبًا: فَلَانًا: پڑھنے کے لیے
کرتا _____ الأمور: معرفت احوال کے لیے
متبع و تلاش کرنا۔

القراءة: مع پڑھنے کی کیفیت، قراءات۔
القراء: وقت۔ قارئین: قراءۃ و قُرُوؤ و اقْرَؤ
اقْرَؤ الشجر: شجر کے انواع اور بحریں اور شجر
کے مقاصد۔

القراءة: وہا۔
القرآن: کلام اللہ۔
القاری: نا۔ عبادت گزار، قراء و قارون و
قراءة۔

الاقراء: عمدہ طریقہ سے پڑھنے والا۔ زیادہ
پڑھنے والا۔

القراء: اچھا پڑھنے والا۔ ج قراؤن۔
القراء: عبادت گزار، قراؤن و قراؤن۔
المقروؤ و المقروئ: جو چیز پڑھی
جائے۔

المقروا: پڑھنے کے وقت جس پر کتاب رکھی
جائے جیسے ڈسک۔ رحل وغیرہ۔
المقروئ: عبادت گزار۔

القراء و القراء: حیض۔ طہر۔ وقت حیض۔ وقت
طہر۔ ج اقرا و قروؤ و اقروؤ یا قراءۃ بمعنی طہر کی
جمع قروؤ اور قراءۃ بمعنی حیض کی جمع اقراء۔

قرب (س) و قرب (ک) قربنا و قرباننا
و قرباننا، قرب ہونا، قربتہ و قرب منه و الیہ:
قریب ہونا۔

قرب (س) قربنا، کوکھ کے در دو والا ہونا۔
قرب (ن) قربنا۔ السیف: تلوار کو میان میں
داخل کرنا۔ میان بنانا۔ صفت قارب اور صفت
مفعول مقروب۔

اقرب الإناء: برتن کا بھرنے کے قریب کرنا۔
اقربت الحامیل: حاملہ کا جننے کے قریب ہونا۔

قربنا: میان بنانا _____ الواعی الإبل:
گھٹ پر پہنچنے کے لیے رات کو لے کے چلنا۔
واعی کو قارب کہتے ہیں۔ مقرب نہیں۔ اور
اونٹوں کو قوادب کہتے ہیں مقربہ نہیں۔

قربہ: قریب کرنا _____ فالامین: خاص لوگوں
میں سے بنا لینا۔ قرب القربان للہ: قربانی کرنا۔
قرب فلانا حیثک اللہ و قرب ذاک: کتنا
_____ القرب: دکھی چلنا _____ الزجل: کوکھ
کے در دو والا ہونا۔

قاربہ مقاربة: قریب ہونا۔ خوش گلائی کرنا۔
قارب فی الامر: نلو کو چھوڑ دینا اور میانہ روی
اختیار کرنا۔

تقرب تقربنا و تقربنا الی اللہ بالقریان:
قربت و محوڑنا _____ الزجل: کوکھ پر ہاتھ رکھنا
اور کہا جاتا ہے "تقربنا زجل" یعنی جلدی کر
اور کہا جائے کہ یہ امر ہی کے ساتھ خاص ہے۔

تقاربا: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔
تقارب الزوج: کھیتی کا پکنے کے قریب ہونا۔
تقاربة: قریب ہونا۔

اقرب الوعد: قریب ہونا _____ الشیطان:
ایک دوسرے کے قریب ہونا۔

استقرب الشئ: قریب سمجھنا۔
القرب و القرب: نزدیک۔
القرب و القرب: کوکھ۔ ج اقرب۔

القرب: کتواں جس کا پانی قریب ہو ج اقرب (ر)
_____ والقربا: گھٹ پر پہنچنے کیلئے رات میں
چلنا۔

القربتہ و القربتہ: نیک افعال۔ جن سے اللہ تعالیٰ
کی قربت حاصل ہو ج قرب و قربات القربتہ:
جلد اور مرتبہ کی نزدیکی۔

القربتہ: ملک ج قرب و قربات و قربات
و قربات اور مثل ہے لقبثہ بنہ عرق القربتہ
یعنی پیچھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔

القرب: میان ج قرب و اقربتہ۔
قرب الشئ و قرباہ: اندازے میں برابر۔
القرب و القربا: قریب۔ کہا جاتا ہے "ما هو

بشبهک ولا بقرباہ و مثلاً" نہ تو وہ تمہارے
مشابہ ہے اور نہ تم سے قریب ہے۔

القربی و القربتہ و القربا: رشتہ داری اور
کہا جاتا ہے "فی الإناء قربة" جب کہ بھرنے
کے قریب ہو۔

القربان: ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب
حاصل کیا جائے۔ چاہے ذبیحہ ہو یا کچھ اور۔ بادشاہ
کا خاص ہم نشین۔ ج قراہین۔

القربان من الایۃ: برتن جو بھرنے کے قریب
ہو۔ مؤنث قریبی ج قراہ القربان۔ بادشاہ کا
خاص ہم نشین۔

القارب: دو ٹکی۔ جموں کی ج قراہ۔
القارب: رات کو پانی کو چھوڑ دینا۔

القرب: نوریک۔ رشتہ دار ج اقرباہ
و قراہی۔ مؤنث۔ قربتہ ج قراہ۔ القرب:
اشعار کی ایک بحر کا نام ہے جو ہمیشہ کے استعمال
میں ہے۔ کہا جاتا ہے "جاءت القربی" وہ سب
قریب قریب آئے اور یہ قریب کی ج صفت
قیاس ہے۔

الاقرب: اسم تفضیل۔
اقربناہ الزجل و القربا و القربا: قریبی
رشتہ دار۔

القربی: بسنی ناموں کا کثیرا جو کھربا کے مشابہ
ہوتا ہے۔

التقرب: مع ایک شہ کی ہود۔
المقرب: معنوں التخلیل: عمدہ گھونٹا مس کی
خوبی کی وجہ سے قلعان قریب ہوا ہے۔ مؤنث۔
مقربتہ۔

المقرب و المقربتہ: مختصر راستہ۔ المقرب:
رات میں چلنا۔

المقرب: نا _____ من العواہل: جس
کے سینے کا زیادہ قریب ہو۔ ج مقارب و
مقاربت۔

المقرب و المقربتہ و المقربتہ: رشتہ داری۔
المقارب: نا۔ جید اور ردی کا در میانہ۔ متوسط
الحال۔

المقرب: معنوں المتناح: ستاسلان۔
المقارب: نا۔ ایک بحر کا نام ہے جس کا وزن

نوعوں آٹھ مرتبہ ہے بہتہ قدر۔

القُرْحُوتُ والقُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

القُرْحُوتُوس۔ زین کا آگے پیچھے پھرنے کا قروح۔

اُونٹنی کا حمل ظاہر ہونا۔ صفت قارح۔

قَرَح (س) قَرَحًا۔ چھوڑوں والا ہونا۔ کہا جاتا ہے

"قَرَحَ قَلْبُهُ مِنَ الْحُزْنِ" اس کا دل غم سے زخمی

ہو گیا "قَرَحَتْ مِسْنُ الضَّبِيِّ" لڑکے کے دانت

ٹکٹکے کے قریب ہوئے۔

قَارِحَةٌ مَقَارِحَةٌ۔ رو در رو ہونا۔

أَقْرَحَ الْفَرَسُ: گھوڑے کا پنج سالہ ہونا۔

أَقْرَحَهُ اللَّهُ: آبلے ڈالنا۔ چھوڑے نکالنا۔

تَفَرَّحَ لِلْأَمْرِ: تیار کرنا _____ الجَسَدُ:

چھوڑے والا ہونا۔

إِقْتَرَحَ الْخُطْبَةَ: فی البدیہہ خطبہ دینا _____

الْأَمْرُ: بغیر کسی نمونہ کے ایجاد کرنا _____

الشَّيْءُ: بغیر نئے کے اپنی طرف سے استہلا کرنا۔

چمنا۔ اختیار کرنا _____ البَعِيرُ: جس اُونٹ پر کوئی

سوار نہ ہوا ہو سوار ہونا _____ عَلَيْهِ كَذَا و

بِكَذَا: سختی سے اور بغیر کچھے پونجے سوال کرنا

_____ عَلَيْهِ كَذَا: ہونے کی خواہش کرنا۔ کہا جاتا

ہے "إِقْتَرَحَ عَلَيْهِ صَوْتٌ كَذَا" اس سے اس

نے فلاں آواز کی خواہش کی _____ البَشْرُ: جہاں

پانی نہ ہو کنواں کھودنا۔

القُرْحُ: مہم۔ زخم۔ چھوڑا۔ سخت کھلی جو اُونٹ

کے بچوں کو ہلاک کرے۔ ج قُرْحُوح۔

القُرْحُ: ہر چیز کا ازل۔ نئے کنوئیں کا پھلا پانی۔

میسے کی ابتدا کی تین راستیں۔

القُرْحُ: مہم۔ اُونٹ کو خارش اور انسان کو پیچک

نہ ہونے کی حالت۔

القُرْحَةُ والقُرْحَةُ: پرانا چھوڑا جس میں پیپہ

جمع ہو۔ قُرْحَةُ الشَّيْءِ او الرِّبْعِ: جائزے یا ہمار

کی ابتداء۔ القُرْحَةُ فِی وَجْهِ الْفَرَسِ: گھوڑے

کی پیشانی پر سفیدی۔ کہا جاتا ہے "قُرْحَةُ

أَصْحَابِهِ" وہ اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہے۔

القُرْحُ: چھوڑوں والا۔

القُرْحُ: خالص پانی۔ سب پانی اور درخت کی

زمین ج قُرْحَةُ۔

القُرْحَانُ: شیر۔

القُرْحَانُ: مِنَ الْإِبِلِ: اُونٹ جس کو کبھی

خارش نہ ہوئی ہو _____ مِنَ النَّاسِ: وہ شخص

جس کو پیچک نہ ہوئی ہو۔

القُرْحَانُ والقُرْحَانِي: جو جنگ میں کبھی

شریک نہ ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ قُرْحَانٌ

وَقُرْحَانِي مِنَ الْأَمْرِ: تم معاملہ سے علیحدہ ہو۔

صفت مؤنث۔ قُرْحَانِيَةُ القُرْحَانِي: جو پیشہ دستی

میں رہے اور جنگ کی طرف نہ جائے۔

القُرْحَانِيَتَانُ: دونوں کوکھ۔

القَارِحُ: فہم۔ ذی الحیاہ: جس کے

پورے دانت نکل آئے ہوں۔ ج قَرَوَاح و

قَرَح و مقارح مؤنث۔ قَارِح و قَارِحَةٌ ج

قَارِحَات و قَرَوَاح۔

القَارِحُ: شیر۔ کہاں جو تانت سے ڈور ہو۔ قَارِحُ

الْفَرَسِ: وہ دانت جس کے ٹکٹکے کے بعد اس کو

قارح کہا جائے۔

القُرْحِيحُ: زخمی۔ ج قَرْحِيح و قَرْوَاحِي: خالص

پانی وغیرہ۔ پھلا بادل جو ظاہر ہو۔ قُرْحِيحُ

السَّحَابَةِ: بارش بوقت نزول۔

القُرْحِيحَةُ: ہر چیز کا ازل۔ کنوئیں کا پھلا پانی

_____ مِنَ الْإِنْسَانِ: طبیعت۔ قُرْحِيحَةُ الشَّاعِرِ

او الکاتبِ: بلکہ راسخ۔ ج قَرَحِيح۔

الْأَقْرَحُ: اسم تفضیل۔ صغ۔ قَرُوشُ أَقْرَحُ: وہ

گھوڑا جس کی پیشانی میں دو بہم کے برابر یا اس

سے کم سفیدی ہو مؤنث۔ قَرُوحًا ج قُرُوح۔

زَوْجَةٌ قَرُوحَاءُ: بہترہ زار۔ سفید چھوڑوں والا باغ۔

المَقْرُوحُ: مہم _____ مِنَ الظُّلُوقِ: واضح

راستہ۔ (_____ وَالْمَقْرُوحُ: چھوڑوں والا۔ کہا

جاتا ہے "لَقِيْنَهُ مَقْرُوحًا" یعنی میں اس سے رو

در رو ملا۔

المِقْرُوحَاءُ: زمین جو زراعت یا پودہ لگانے کے

لئے خاص ہو۔

المِقْرُوحُ: لیے پاؤں کی اُونٹنی۔ ج قَرَوَاحِيح

القَرَوَاحِ: زمین مقل آفتاب۔ زمین جو

زراعت یا پودہ لگانے کے لیے خاص ہو۔

قَرْدٌ (س) قَرْدًا: الأَدِيمُ: ادھوڑی کا کرم

خوردہ ہونا _____ الكَحْلُ فِي الْعَيْنِ: سرمہ کا

پراگندہ ہونا _____ أَسْنَانُهُ: چھوٹا ہونا اور

سوزھے سے ملنا _____ الْعِلْكُ: بدمزہ ہونا

_____ وَتَقَرَّدُ الشَّعْرُ: بالوں کا گھٹھریالے ہونا۔

ایک پر ایک جم کر مندہ جیسا ہو جاتا۔

الْقَرَسُ وَالْقَرَسُ وَالْقَرِيشُ - تخت سردی۔
 الْقَرَسُ وَالْقَرِيشُ: جما ہوا۔ کہا جاتا ہے
 "أَصْبَحَ الْمَاءُ قَرِيشًا" پانی جم گیا۔
 الْقَرَسُ: چھوٹے پتھر۔
 الْقَارِسُ: قا۔ تخت سردی۔ شَقِي قَارِشٌ
 وَقَرِيشٌ: پرانی چیز۔
 الْقَرَسُ وَالْقَرِيشَةُ: مِنَ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا:
 موٹا و مضبوط۔ کہا جاتا ہے "لَهُمْ مَلِكٌ قَرِيشَةٌ"
 وَعِزٌّ قَرِيشَةٌ" ان کے لیے مضبوط مملکت اور
 پائیدار عزت ہے۔
 الْقَرِيشَا: ایک درخت ہے جس کا پھل کالے
 انجور کی مانند ہوتا ہے۔ صاف سے بھی لکھا جاتا ہے۔
 دخیل۔
 الْقَرَسُطْلُونُ: روپیہ تولنے کا پیمانہ۔
 قَرَشَةٌ (ن ع ش) قَرَشًا: کانا۔ قَرَشُ الْحَيْشِ
 بِالرَّمَاحِ: نیزہ مارنا۔ الشَّقِيُّ: ادھر ادھر
 سے اٹھکارا اور ہلانا۔ مِنَ الطَّعَامِ: تھوڑا
 سا کھانا پانا۔ قَرَشٌ وَقَرَشٌ: لِيصَالِهِ:
 کمانی کرنا۔ وَقَرَشٌ بَيْنَهُمْ: برا لگینے کرنا۔ اَکْسَانًا:
 چھل خوری کرنا۔
 قَرَشَةٌ: قریش کی طرف منسوب کرنا۔
 أَقْرَشٌ بِهِ: چھٹی لکھنا۔ مَيُوبٌ ظَاهِرٌ كَرْنَا:
 أَقْرَشَةُ الشَّجَةِ: بیہرہ ہونے کے پٹی ٹوٹنا۔
 تَقَرَّشَ: المَالُ: جمع کرنا۔ عَنِ
 السَّيِّئَاتِ: بڑائیوں سے پرہیز کرنا۔ چٹا۔
 الشَّقِيُّ: اول اول لینا۔ الشَّقِيُّ: چٹنا۔
 تَقَرَّشَ الْقَوْمُ: قوم کا جمع ہونا۔ تَقَرَّشَتْ
 وَتَقَارَشَتْ الرَّمَاحُ: لڑائی میں نیزوں کا آپس
 میں گھٹنا۔ تَقَارَشَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو نیزہ
 مارنا اور اس سے جھکا پیدا ہونا۔
 الْقَتْرَشُ: لِيصَالِهِ: کمانی کرنا۔ الْقَتْرَشَتْ
 الرَّمَاحُ: لڑائی میں نیزوں کا آپس میں گھٹنا۔
 بِهِ: چھٹی لکھنا۔ تَقْصَانٌ پَچھانے کے لیے کوشش
 کرنا۔
 الْقَرَشُ: جو ادھر ادھر سے جمع کیا جائے۔ ج
 قَرُوشٌ۔ قَرُوشٌ الشَّقِيُّ: چیز کی آواز۔
 الْقَرُوشُ: پچاسٹر۔ ایک ترکی سکہ مساوی ۱۰۴
 (دخیل)

الْقَرْدُودُ: انسان کی پیٹھ کا دھبہ۔
 الْقَرْدُودَةُ: تخت اور بلند زمین۔
 قَرْدُودَةُ الشَّيْءِ: جائزے کی شدت۔ قَرْدُودَةُ
 الظَّهْرِ: پیٹھ کا اعلیٰ حصہ۔
 الْقَرْدِيدَةُ: کلام کی سختی۔ پیٹھ کے درمیان کانٹہ۔
 مرد کا سر۔ پہاڑ کی چوٹی۔ ج قَرْدِيدٌ۔
 قَرْدَمَةُ قَرْدَمَةٌ: مضبوط باندھنا۔ قَرْدَسٌ جِرْوُ
 الْكَلْبِ: کتے کے لیے کوبانا۔
 الْقَرْدَمَةُ: مہ۔ سختی شدت۔
 الْقَرْدَعَةُ: خوری۔ زلت۔
 الْقَرْدَعَةُ: گردن۔ گردن۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ
 بِقَرْدَعَتِهِ" اس نے اس کی گردن پکڑ لی۔
 الْقَرْدُوعُ: چھوٹی جوں۔
 الْقَرْدُوعَةُ: پہاڑ کی ڈاڑھا کا گوشہ۔
 الْقَرْدُوعُ: نادان عورت۔
 قَرْدَةُ (ن) قَرْدًا: کھینچنا۔ قَرْدُ التَّرَابِ وَتَحْوَةٌ:
 اُكْلِيوں سے لینا۔
 الْقَرْدُومُ: مہ۔ ٹیکہ۔ سخت زمین۔
 الْقَرْدُومُ: تیل کی شیشی۔
 الْقَرْدُومَةُ: ہریزی کی ایک ٹھٹی۔
 الْقَرْدُوحَةُ: پتہ قد عورت۔
 قَرْدَاتُ الْمَرْأَةِ قَرْدَاتٌ: بالوں کا جوڑا بنانا۔
 الْقَرْدُومُ: تالاق۔ کینہ۔
 قَرْدُومُ الشَّاعِرِ وَشِعْرُهُ: رومی شعر کرنا۔
 الْقَرْدُومُ: گھٹیا شاعر۔
 الْمَقْرُومُ: حقیر۔ لئیم۔ فرومایہ۔ زَجَلٌ مَقْرُومٌ:
 گھٹے ہوئے بدن کا پتہ قد مرد۔
 الْقَرْدُومُ: موچی یا موزہ بنانے والوں کا فرمہ۔
 قَرَسٌ (ع ش) قَرَسًا: مِائَةُ: پانی کا نجد و سرد ہونا
 البَزْدُ: تیز جاڑا ہونا۔ الْمَقْرُومُ:
 سخت سردی کی وجہ سے کام نہ کر سکتا۔
 قَرَسٌ (س) قَرَسًا: البَزْدُ: تیز جاڑا ہونا۔
 الزَجَلُ: ٹھٹھرا۔
 أَقْرَسُ: القَرْدُومُ: بکڑی کی تری کا اس کے اندر جم
 جانا۔ أَقْرَسَ البَزْدُ أَصَابِعُهُ: سردی کا اُكْلِيوں کو
 سن کر دینا۔
 أَقْرَسَ وَقَرَسَ: البَزْدُ فَلَانًا: ٹھٹھرا دینا۔
 أَقْرَسَ وَقَرَسَ الْمَاءُ: جمادیا۔

قَرْدٌ وَالْقَرْدُ وَالْقَرْدُ: دراندگی سے خاموش
 رہنا۔ زمین سے چٹنا۔ قَرْدَةٌ: دھوکا دینا۔ قَرْدٌ
 التَّبَعِيرُ: اونٹ سے چھڑی نکالنا۔ قَرْدٌ وَالْقَرْدُ
 الْبَيْتُ: تابعدار ہونا۔ الْقَرْدُ الْمُشْجَرُ: ساکن
 ہونا۔ الْقَرْدُ الْبَيْزِيُّ: چھڑی والا ہونا۔ ایسی نرم مجال
 چلنا جس سے سوار کو حرکت نہ ہو۔
 قَرْدٌ (ع ش) قَرْدًا: المَالُ: جمع کرنا۔ کمانی کرنا
 فِي السَّبَاءِ: مشکیزہ میں دودھ یا گھی جمع
 کرنا۔
 الْقَرْدُ: مہ۔ پتہ قد گردن۔
 الْقَرْدُ وَالْقَرَادُ: چھڑی واحد۔ قَرْدَةٌ وَقَرَادَةٌ
 ج قَرْدَانُ: القَرَادُ: پستان کا سرا۔ کہا جاتا ہے
 "تَوَعَّثَ قَرَادُ فُلَانٍ" یعنی میں نے اس کو فریب
 دیا۔
 الْقَرْدُ: بندر، لنگور، اَقْرَادٌ وَالْقَرْدُ وَالْقَرْدُ
 وَقَرْدُ قَرْدَةٍ: مَوْنَتُ: القَرْدَةُ ج قَرْدٌ۔
 الْقَرْدُ: مہ۔ اون یا کتان کا رومی حصہ۔ پتی
 اُتَارِي ہوتی کھجور کی شاخ۔ واحد قَرْدَةٌ۔
 الْقَرْدُ: زیان کا ہلکا پن۔ بادل کے متفرق چھوٹے
 چھوٹے ٹکڑے۔
 الْقَرْدُ: مِنَ الْإِبِلِ: بہت چھڑی والا اونٹ۔
 گھگھسور لکھا۔ زَجَلٌ قَرْدٌ الْقَمِيمُ: ایسا شخص جس
 کے دانت پیدا انٹی چھوٹے ہوں۔
 زَجَلٌ قَرْدٌ: ساکن مرد۔
 الْقَرَادُ: بندر والا۔
 قَرْدٌ ج قَرْدَحَةٌ: اقرار کر لینا۔ تابع و قربان ہوا
 ہونا اور استعمال عوام، تھیاری بنانا اور درست کرنا۔
 الْقَرْدُ أَحْيَى وَالْقَرْدُ حَيٌّ: تھیاری بنانے اور
 درست کرنے والا۔
 الْقَرْدُ خَلَةٌ: جتوے گناہ کرنا۔
 الْقَرْدُوحُ وَالْقَرْدُوحُ: لنگور۔ بڑا بندر۔
 الْقَرْدُوحَةُ وَالْقَرْدُوحَةُ: توجوان کے گلے کا
 ٹیٹو۔
 الْمَقْرُونَةُ: قا۔ آمادہ شہارت۔
 الْقَرْدُودُ: سخت اور بلند زمین ج قَرَادُ۔ کہا جاتا
 ہے "جَاءَ الْحَدِيثُ عَلَيَّ قَرْدِيهِ" اس نے
 بات کو اپنے موقع پر کہا۔
 الْقَرْدُودُ: سخت اور بلند زمین۔ ج قَرَادِيدٌ

قرض

قرض

قرض

۶۴۲

القَرْضُ وَالْقَرْضَانُ - ایک قسم کی پھلی جس کو كَلْبُ التَّيْحَرِ بھی کہتے ہیں جو پانی کے اندر جانوروں کو اپنے دانت سے تلواری کی طرح کاٹ دیتی ہے۔

قَرْنِيْشٌ - عرب کا مشہور قبیلہ اور نسبت کے لئے قَرْنِيْشِيٌّ و قَرْنِيْشِيٌّ۔

رِمَاحُ قَرَوَارِشٍ - لڑائی میں گتے ہوئے نیزے جین قَرْنِيْشٌ : سخت خشک نیزہ۔

المُقَرَّرَاتُ مِنَ السِّنِيْنَ : سخت قلم کاسال۔

قَرَضٌ (ن) قَرْضًا لِحَمَّةٍ : چنگلی لینا۔

بِلِسَانِهِ : تکلیف وہ کلمات کہنا۔

بِالْمَاءِ : انگلیوں کے پوروں سے دھونا۔

التَّبَرُّغُوثُ : پیو کا کاٹنا۔

قَرَضَةُ الْحَيَّةِ : سانپ کا ڈنٹا۔

قَرَضٌ وَقَرَضٌ الشَّيْءُ : کاٹنا۔

العَجِيْنُ : گندھے ہوئے آنے کے پیرے بنانا۔

قَارِضَةٌ وَمَقَارِضَةٌ - ایک دوسرے کو چنگلی لینا۔

قَرَضٌ (س) قَرْضًا - ہمیشہ غیبت کرنا اور تکلیف دہ کلمات بولنا۔

القَرْضُ - روٹی کی نکلیا۔ قَرْضُ الشَّمْسِ :

آفتاب کا گروہ۔ کہا جاتا ہے "غَابَ قَرْضُ الشَّمْسِ" آفتاب کی نکلیا غائب ہوگئی۔

ج قَرْضًا ص و قَرْضًا قَرْضًا -

القَرْضَةُ - روٹی کی نکلیا۔ ج قَرْضُ -

القَرْضُ - بیلونہ اور کہا جاتا ہے "أَحْمَرُ قَرْضًا" یعنی بہت سرخ۔

القَرْضُ - ایک روئیں دار گھاس جس کے چھوٹے سے جلن ہوتی ہے۔ واحد قَرْضَةٌ -

القَرْضُ : بیلونہ اور کہا جاتا ہے "أَحْمَرُ قَرْضًا" یعنی بہت سرخ۔

لِيَجَامَ قَرْضًا وَقَرْضُ - وہ لگام جو جانور کو تکلیف دے۔

القَارِصُ - نا۔ پھم کی مانند ایک جانور۔

القَارِصَةُ - قَارِصٌ كَالسَّوْتِ - كَلِمَةٌ قَارِصَةٌ :

تکلیف دہ کلمہ۔ ج قَارِصٌ -

القَرُوْضَةُ - چرپاہٹ۔

المِقْرُوضُ - ٹیڑھے سر کی چھری۔

المُقَرَّرُ - مٹھ۔

مِنَ الخَلِيْقِ

و غَيْرَهَا : نکلیا کے مانند گول زیور۔

القَرْضَانُ - بحری ڈاکو (دخیل)

القَرَاصِيْنَا - بمعنی قراسیا۔

قَرَضِيَّةٌ قَرَضِيَّةٌ - کاٹنا۔

القَرَضُ - وہ خوشہ جو دائیں کرنے کے بعد باقی رہ جائے۔

قَرَضٌ قَرَضَةٌ - سگڑنا۔ پوشیدہ ہونا۔ بخل کی وجہ سے تمنا کھانا۔ باریک لکھنا۔ اور سطروں کو قریب قریب کرنا۔

فِي سِيْتِهِ : بیٹھنا اور سٹھنا۔

قَرَضٌ قَرَضَةٌ - سگڑنا۔ پوشیدہ ہونا۔ بخل کی وجہ سے تمنا کھانا۔ باریک لکھنا۔ اور سطروں کو قریب قریب کرنا۔

فِي سِيْتِهِ : بیٹھنا اور سٹھنا۔

زَيْدًا فِي سِيَابِهِ : بیٹھنا۔

تَقَرَّرَتِ الْمَرْءَةُ : بڑی چال چلنا۔

إِقْرَضَ الزَّجْلُ : کپڑوں میں لپٹنا۔ سگڑنا اور چھپنا۔

القَرَضُ - ایک خار دار درخت جس کو شوکة ابراہیم بھی کہتے ہیں اور اس کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

القَرَضَةُ - ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کاسے تیز ہوتے ہیں۔

بملائی کا بدلہ دینا۔ تَقَارَضًا الشَّيْءُ : اپنے اپنے اشعار کا پڑھنا۔ تَقَارَضًا الشَّيْءُ : ہر ایک کا دوسرے کی تعریف کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَقَارَضَ القَرْنَانِ التَّقَطُّرُ" یعنی ہر ایک نے دوسرے کو کڑی نگاہ سے دیکھا۔

إِقْتَرَضَ - ختم ہونا۔ کتنا۔ القَوْمُ : سب کا ہلاک ہونا اور کسی کا باقی نہ رہنا۔

إِقْتَرَضَ - مٹھ۔ قرض لینا۔ عَزَضَةٌ : غیبت کرنا۔

إِسْتَقْرَضَ مِثْلَهُ : قرض مانگنا۔

القَرْضُ وَالْقَرْضُ - اچھا برا عمل جو پیش کیا جائے جو مال تم کسی کو اس شرط پر دو کہ وہ وقت معینہ پر تم کو واپس کر دے۔ ج قَرُوْضُ -

القَرَضَةُ - کاسے میں جو گرے جیسے سونے کے ذرات۔ کپڑے کی دھجی وغیرہ۔ قَرَضَتُهُ المَالُ : ردی مال۔

التَّقْرِضُ - شامری۔

القَرَضُ - کاٹنا ہوا۔ شعر۔ جنگال۔

القَرَضَةُ - لوگوں کی غیبت کرنے والا۔ کپڑا جو اون کو چاٹ جاتا ہے۔

إِبْنٌ مِقْرُضٌ - نیولے کے مانند ایک جانور جو اس سے بڑا اور سفید زردی مائل ہوتا ہے اور چوہے خرگوش اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔

المِقْرُضُ - قیچی۔ ایک پھل ہو جب تو "قَرَضَتُهُ بِالمِقْرُضِ" بولتے ہیں اور اگر دونوں پھل ہوں تو "قَرَضَتُهُ بِالمِقْرُضِ" نہیں کہتے بلکہ "قَرَضَتُهُ بِالمِقْرُضِ" کہتے ہیں۔

ج مقارض۔

المِقْرُضُ - تھوڑی کھیتی۔ بڑے ٹکے۔ شراب کے برتن۔

قَرَضَتِ الشَّيْءُ : جدا جدا کرنا۔ الزَّجْلُ خشک چیز کھانا۔ اللِّحْمُ فِي التَّبَزْمَةِ : گوشت کو ہانڈی میں جمع کرنا۔ فَلَانٌ : دوڑنا۔ اللِّحْمُ : کل کھا جانا۔ کہا جاتا ہے "قَرَضَتِ الذُّنْبُ الشَّاةَ" بھڑیا سالم بکری کھا گیا۔

القَرَضُ - بھوسی جو چھلنی میں بچ رہے اور پھینک دی جائے۔

الْقِرْطَابُ وَالْقِرْطَابُ - تلوار کا طبع - چور -
 خشک چیز کو کھانے والا - فقیر - ج قرأضبة -
 القِرْطَابُ - جو کچھ لے اس کو کھا جائے والا -
 ج قرأضب -
 القِرْطَابُ - چرواہے کا ڈنڈا - بست کھانے والا -
 مرد -
 قِرْطَمُ الشَّيْءِ - کانا - لے کر چل دینا - کہا جاتا
 ہے "هُوَ يَقْرِطُ كُلَّ شَيْءٍ" وہ ہر چیز کو لے کے
 چل دیتا ہے -
 قِرْطُ (ن) - قِرْطَا - الكِرْطَاتُ وَنَحْوُهَا - باریک
 باریک کانا -
 قِرْطُ (س) - قِرْطَا - التَّنْيِشُ - کئے ہوئے کانوں
 والا ہونا - صفت - قِرْطُ -
 قِرْطُ - الشَّيْءِ - کترے کترے کرنا -
 الجَارِيَةُ - لڑکی کو بلی پر تانا - القِرْمَسُ -
 گھوڑے کو لگام لگانا - السِّوَاجُ - چراغ
 سے گل گرانا - عَلِيُّ الرَّجُلِ - تھوڑا
 تھوڑا رہنا - اَلْيَهُوَ سُوْلًا - جلدی بھیجنا -
 تَقَرَّطَتِ الْمَرْأَةُ - عورت کا بلی پر تانا -
 القِرْطُ - گندنا کی ایک قسم -
 القِرْطُ - بلی - اَبْرُ - رنگ - کان کا زیور - ج
 اَقْرَاطُ وَقِرَاطُ وَقِرْطُ وَقِرْطَةٌ - القِرْطُ - آگ
 کا شعلہ - صحن - ایک گھاس ہے جو اہست کے
 مشابہ ہے (یا بنا بر تشبیہ) والقِرْطُ مِنَ السَّمُوزِ
 اَوْ الْبَلْحِ عِنْدَ الْعَامَةِ - کیلے وغیرہ کی پھلیوں کا
 گچھا -
 القِرْطَةُ وَالْقِرْطَةُ - مینڈھے کے کان کا کٹ کر
 لگتا ہوا حصہ -
 القِرْطُ - چراغ - چراغ کا شعلہ ()
 والقِرْطَاةُ - بتی کا گل -
 القِرْطَاةُ وَالْقِرْطَاةُ - نصف دائر اور بتول
 بعض دینار کا ۴/۶ اور بتول بعض دینار کے
 دسویں حصہ کا آدھا - کسی چیز کا جو بیسواں حصہ
 _____ فِي الْمَسَاحَةِ - انگلی کی چوڑائی کے
 برابر - (دخیل) القِرْطَاةُ عِنْدَ الْيُونَانِ - دانہ
 خربوب - نصف دائر ج قرأربط - القِرْطَاةُ -
 دانہ ترمندی -
 القِرْطَاةُ - ایک مرہم جس کا نام کیا جاتا ہے

(دخیل)

قِرْطَمَةُ قِرْطَمَةُ - گدی کے گل بچھاڑنا -
 قِرْطَبُ الْجَزُورِ - ہڈیوں کا کانا - الرَّجُلُ
 غضبناک ہونا - تیز دوڑنا - بھاگنا -
 تَقَرَّطَ - گدی کے گل گرنا -
 القِرْطَابُ - بست کاٹنے والا -
 القِرْطَابِيُّ - تلوار -
 قِرْطَمَةُ - اندلس کا شہر جس کو انگریزی میں کارڈوا
 کہتے ہیں -
 قِرْطَسٌ - نشانہ لگانا -
 تَقَرَّطَسَ - الرَّجُلُ - ہلاک ہونا -
 القِرْطَسُ وَالْقِرْطَسُ وَالْقِرْطَسُ
 والقِرْطَسُ وَالْقِرْطَسُ - کانڈ - القِرْطَسُ -
 نشانہ - ایک قسم کی مصری چادر - تحریر جو کچھ بھی ہو -
 سفید کشیدہ قامت لڑکی - جوان اونٹنی - ج
 قِرْطَاةِيسُ -
 القِرْطَاةُ وَالْقِرْطَاةُ - تھوڑی چیز -
 القِرْطَاةُ - بلا رختی -
 القِرْطَاعُ - جوں جو اونٹ کے بدن میں پیدا ہو
 جاتے -
 القِرْطَافُ وَالْقِرْطَافَةُ - عملی چادر -
 قِرْطَافَةُ قِرْطَافَةُ - کانا پر تانا -
 تَقَرَّطَقَ - کرنا پھینکا -
 القِرْطَقُ - کرتا -
 قِرْطَلَةٌ فِي الْمَاءِ - بلی میں ڈوبنا -
 القِرْطَلُ - ٹوٹری - کنڈیا ج قرأاطل -
 القِرْطَلَةُ - گدھے کا ایک جانب کا بوجھ -
 القِرْطَالَةُ - پالان کے نیچے کا نوکیر ج قرأاطل -
 قِرْطَمُ قِرْطَمَةَ - الشَّيْءِ - کانا - الظَّائِرُ
 قرطم کے دانے ڈالنا -
 القِرْطَمُ وَالْقِرْطَمُ وَالْقِرْطَمُ وَالْقِرْطَمُ - صمغ
 کا دانہ -
 القِرْطَمَانُ - ایک قسم کا غلہ جو ماش کے مشابہ
 ہو جاتا ہے -
 خِفَافٌ مُقْرِطَمَةٌ - کناروں پر مضبوط سلا ہوا
 چرمی موزہ جو پتھر کو توڑ دے -
 قِرْطُ (ض) - قِرْطَا - القِرْطُ - درخت سلم (جو کیکر
 کے درخت کی مانند ہوتا ہے) کے پتے چننا -

_____ الْأَدِيمُ - درخت سلم کے پتوں سے
 دیاغت رہنا -
 قِرْطُ (س) - قِرْطَا - زلزلت کے بعد سردار ہونا -
 قِرْطَةٌ تَقْرِطُ - زندہ کی جھوٹی یا جی مدح کرنا -
 القِرْطُ - درخت سلم کے پتے - واحد قِرْطَةٌ -
 القِرْطَاةُ - درخت سلم کی پتیوں کا بیچنے والا -
 قِرْعُ (ف) - قِرْعَا - النَّبَابُ - دروازہ کھٹکانا -
 اور اسی سے مثل ہے "مِنْ قِرْعٍ تَابَاوَلِجٌ وَلِجٌ"
 جو شخص دروازہ کھٹکائے اور اصرار کرے وہ
 داخل ہوتا ہے - الرَّجُلُ - مارنا - کہا جاتا
 ہے "قِرْعَ زَائِسَةَ بِالْعَصَا" اس نے اس کے سر
 پر لاشمی ماری - "قِرْعُ صَفَاةٍ" اس نے اس کی
 منتصت کی اور عیب بیان کیا "قِرْعُ سَافِهٍ
 لِلْأَمْرِ" وہ کام کیلئے فارغ ہوا - الشَّيْءُ -
 پسند کرنا - السَّهْمُ الْغَايَةُ - تیر کا نشانہ پر لگانا
 _____ هَ امْرُؤٌ اِحْطَاكَ بِشِ آتَا _____ سَيْتَهُ -
 ندامت سے دانت بیانا -
 قِرْعُ (ن) - قِرْعَا فُلَانًا - قرعہ میں غالب آنا -
 قِرْعُ عَلَيَّهِ - تیر اندازی میں مغلوب ہونا -
 قِرْعُ (س) - قِرْعَا وَقِرْعَا الْمَكَانُ - خالی ہونا
 _____ مَاءُ الْبَيْتِ - پانی کا ختم ہونا
 الرَّجُلُ - تیر اندازی میں مغلوب ہونا - مشورہ
 قبول کرنا - قِرْعَا الرَّجُلُ - سمجھا ہونا -
 قِرْعُ فُلَانًا - جھڑی رہنا - الْقَوْمُ - برنجیدہ
 کرنا - الْقَبِيضُ - اونٹ کے بچے کی بچنی
 کا علاج کرنا - الشَّعْرُ - بال کانا -
 قَارَعَةُ مُقَارَعَةٌ وَقِرَاعًا - باہم قرعہ اندازی
 کرنا - قَارَعَةُ لَقْرَعَةٍ - اس نے اس سے قرعہ
 اندازی کی اور غالب آیا -
 قَارَعٌ وَتَقَارَعُ الْقَوْمُ - قرعہ ڈالنا بعض کا
 بعض کو تلوار مارنا - بِالْمَوَاحِ - آپس میں
 تیز بازی کرنا -
 أَقْرَعٌ - باز رہنا - مشورہ قبول نہ کرنا
 عَنَهُ - رُكْنَا - الْمَسَافِرُ - منزل سے قریب
 ہونا - الْغَائِضُ وَالْمَائِخُ - غوطہ خور کا
 زمین کی تہ تک پہنچنا - الشَّرُّ - بوجھ رہنا
 نَقَلَهُ - جوتے میں موٹا ہونا لگانا
 الْحَمِيضُ - گدھوں کا ایک دو سرے کو دو لٹی مارنا

الشئى طاقث رکھتا ___ ذازہ
 آجزًا ایشوں کا فرش لگانا۔
 فلانًا: روکنا ___ االى الحقى: لوٹنا
 الرّوجل: عمدہ مال دینا ___ الذابّة
 بلجامہا: جانور کو لگام سے کھینچ کر روکنا
 نین القوم: قرع ڈالنا۔
 نقرع و انقرع: اٹلنا پلٹنا۔ انقرع عن الامر:
 رکنا ___ عن الحق: باز رہنا۔ نقرع
 الجملد: گھبے پن کی وجہ سے کھال کا چھل جانا۔
 انقرع الشئى: اختیار کرنا۔ پسند کرنا ___
 التار: آگ روشن کرنا ___ القوم على
 کذا: قرع ڈالنا۔
 استنقرع الحافض: کھر کا سخت ہونا ___
 الکوش: اوجھ کا سخت ہونا۔
 القرع: مدہ۔ کدو۔ واحد قرعۃ۔
 القرعۃ: قرع کا اسم مرہ۔
 القرع: مدہ۔ سفید پھنسی جو اونٹ کے بچوں کو
 ہوتی ہے۔ گنجان۔ سبقت۔ اونٹوں سے خالی ان
 کی خوابگاہ۔ وہ جگہیں جن میں صرف گھاس ہو
 اور دوسری نباتات نہ ہو۔ کھلی۔
 القرعۃ: ڈھال۔ سر میں تھک کی جگہ۔ بھیلی ہوئی
 تلی کا توشہ دان۔ اونٹوں سے خالی ان کی خوابگاہ۔
 القرعۃ: حصہ۔ توشہ دان۔ القاء القرعۃ:
 قرع اندازی (___ والقریعة) عمدہ مال۔
 القریعة: گھر میں سب سے عمدہ جگہ۔
 القرع: نہ سونے والا۔ مشورہ قبول کرنے والا۔
 تباہ شدہ ناخن۔ أرض۔ قریعة: بجز زمین۔
 القارعة: قارع کا مؤنث۔ قیامت۔ قارعة
 الطریق: راستہ کا اعلیٰ حصہ۔ مصیبت۔ ہلاک
 کرنے والی مصیبت۔ ج قوارع۔ قوارع القرآن
 وہ آیتیں جن کے پڑھنے سے شیاطین و جنات سے
 انسان محفوظ رہے۔ کہا جاتا ہے "قرع عنہم
 قوارع الذھر" ان پر زمانہ کی سخت مہیتیں
 نازل ہوئیں و "نقرذ باللہ من قوارع فلان"
 ہم فلاں کی زبان کی تیزی سے اللہ کی پناہ مانگتے
 ہیں۔
 القراع: اسم مبالغہ۔ ڈھال۔ بست سخت۔
 مؤنث۔ قراعة۔

القرع۔ قرع اندازی کرنے والا۔ قرع اندازی
 میں غالب۔ قرع اندازی میں مغلوب۔ سردار
 جوان اونٹ۔ کہا جاتا ہے "فلان قرع ذھرہ"
 فلاں انتخاب زمانہ ہے "ھو قرع الکینبۃ" وہ
 فوج کا سردار و کمانڈر ہے "فصیل قرع" پھنسی
 والا اونٹ کا بچہ۔ ج قرع علی۔
 القروع۔ کم پائی والا کتواں۔ بکری جس پر قرع
 اندازی کریں۔
 القریع۔ مبالغہ۔ سردار۔
 الاقرع۔ گنجا۔ جیل اقرع: بے نباتات کا پہاڑ۔
 عوذ اقرع: چھال اتڑی ہوئی لکڑی۔ نقرش
 اقرع: سخت ڈھال۔ قدح اقرع: ککری سے
 مانجا ہوا تیر کہ جس میں نقرش وغیرہ ظاہر ہو
 جائیں۔ الاقرع: عمدہ بوسے کی تلوار۔
 من الحیات: زہریلا سانپ کہ زہر کی وجہ سے
 اس کے سر کے بال گر گئے ہوں۔ مؤنث۔ قرعاء
 ج قرع و قرعان۔
 القرعاء: اقرع کا مؤنث۔ مصیبت۔ گھر کا صحن۔
 راستہ کا اعلیٰ حصہ۔ أرض قرعاء: چری ہوئی
 زمین۔
 القریعا: زمین جس کے کناروں پر پیداوار ہو
 اور درمیان میں خالی ہو۔
 المقرع: گھٹی یا چھوڑ کھانے کا برتن۔
 المقرعۃ: کوڑا۔ ہر وہ چیز جس سے کھٹکتایا
 جائے۔ ج مقارع۔
 المقرع: من الخنبل: وہ گھوڑا جس کو لگام کھینچ
 کر دوکجا جائے اور وہ اپنے سر کو بلند کرے۔
 المقرع: پھر توڑنے کی کدال۔
 المقرع: مہر۔ سردار۔
 اقرع: سردی وغیرہ سے سمنٹا۔
 المقرع: غصے کی وجہ سے سر جھکانے والا۔
 نقرع: بچ ہونا۔
 القرع: فراہم آمدگی۔
 مقرع: بلند قامت۔
 القروعوس و القروعوس: دو کوہان کا اونٹ۔
 القروعوس و القروعوس: دو کوہان کا اونٹ۔
 شیر کا بچہ۔
 القراعول: راستہ کا محافظ۔ تااری لفظ ہے اور

اس کے لیے عربی لفظ خفیر ہے۔
 قرف (ض) قرفا یعبالہ: کمانی کرنا ___
 علی القوم: ظلم کرنا۔ بغاوت کرنا۔ حد سے گزرتا
 الرّوجل: جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا۔ ج ملانا ___
 الشئى چیلنا۔ ملانا) ___ وقرف: فلانًا بکذا:
 عیب لگانا۔ تمہت رکھنا ___ القرحۃ: زخم کو
 چیلنا۔
 قرف (س) قرفا فلان المنرض: مرض کے
 قریب ہونا۔
 قارفة مقارفة وقرفا: قریب ہونا۔ جماع
 کرنا۔ قارف الذنب: گناہ میں ملوث ہونا۔
 اقرف: فہ: قریب ہونا۔ اختلاط کرنا۔ اقرفہ:
 بڑائی سے یاد کرنا۔ اقرف بہ: تمہت لگوانا ___
 الجرب الصحاح: بیماری کا چھوٹ لگانا۔
 نقرف الخبز: زخم کا چھل جانا۔
 اقرف: کمانی کرنا ___ الذنب: گناہ کر لینا
 المال: جمع کرنا اور کہا جاتا ہے "قرفئہ
 بالامر فاقرف بہ" میں نے اسے عیب لگایا اور
 اسے عیب لگ گیا۔
 القرف: ایک قسم کے چمڑے کا برتن جس کو
 انار کے چھلکوں سے دیانت دیتے ہیں۔ گمرا
 سرخ۔ ج قواف و قزوف۔
 القزوف: درخت کی چھال۔ ہر چھال کو قزوف
 کہتے ہیں اور اسی سے ہے "قزوف الزمان" روٹی
 کا چھلکا جو نور میں رہ جائے۔ زمین سے اکھڑی
 ہوئی چیز۔ ناک پر خشک رینٹ ج قزوف واحد
 قزوفۃ القزوف: لائق۔ مناسب کہا جاتا ہے "ھو
 قزوف بکذا" وہ اس کے لائق ہے۔
 القزوف: مرض کا دوبارہ ہونا۔ میل بول۔
 تمہت: بیماری کی چھوٹ۔ کہا جاتا ہے "ھو قزوف"
 او قرف بکذا" وہ اس کے لائق ہے۔ القزوف:
 گمرا سرخ والا۔ کہا جاتا ہے "ازاک اخصر
 قرفا" میں تم کو بت سرخ دیکھ رہا ہوں۔
 القزوف: کمانی۔ چھال۔ انار کے چھلکے۔ دار چینی
 کی ایک قسم جس کو بیج کہتے ہیں۔ تمہت۔ جس
 کے اوپر تمہت لگاؤ۔ کہا جاتا ہے "فلان قزوفی"
 فلاں وہ شخص ہے جس پر میں نے تمہت لگائی ہے
 و "بنو فلان قزوفی" بنو فلاں وہ لوگ ہیں جن

کے متعلق میرا گمان ہے کہ میرا مطلوب ان کے پاس ہے۔

القَرْزُوفُ۔ بہت ظلم کرنے والا۔ بڑا بے انصاف۔ تو شدان۔ ج قَرْزُوفُ و قَرْفُ۔

القَرْفِيُّ وَالْمَقْرُوفُ۔ وہ شخص جس کے اندر سرخی جھلکتی ہو۔ المَقْرُوفُ: خسیس۔ حقیر۔ جس کی ماں عربیہ ہو اور باپ غیر عرب۔ وَجْهٌ مَقْرُوفٌ: بد صورت چہرہ۔

الْأَقْرُوفُ۔ بہت سرخی والا۔

القَرْفَةُ: درخت کی چھال۔

المَقْرُوفُ۔ وہ جگہ جہاں سے چھال اتار دی گئی ہو۔

المَقْرُوفُ۔ بہت گناہوں کا ارتکاب کرنے والا۔ زَجْلٌ مَقْرُوفٌ۔ پکلی کروالا۔ سبک مرد۔

قَرْفَصَةٌ قَرْفَصَةٌ۔ پاؤں کے نیچے دونوں ہاتھ باندھنا۔

تَقْرَفُضْتِ الْعَجُوزُ: بڑھیا کا کپڑوں میں لپٹنا۔

القَرْفُصِيُّ۔ مثلثة الفاء والقَرْفُصَاءُ والقَرْفُصَاءُ۔ آکڑوں بیٹھنا اور ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھنا۔ کہا جاتا ہے "قَعَدَ القَرْفُصِيُّ" او القَرْفُصَاءُ "وہ آکڑوں بیٹھا۔"

القَرْفِصُ۔ مضبوط۔

القَرْفِصَةُ: ڈاکو۔

قَرْفَضَ الرَّجُلُ: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔

اِقْرَفُ نَفْطًا۔ سستا۔

المَقْرُوفُ: مِنَ الْأَطْعَمَةِ: لوگ سے خوشبو دار کیا ہوا۔

قَرْوَقٌ (ان) قَرْوَقًا بُلْفَانٌ: دھوکا دینا۔ قَرْوَقَتِ الدَّجَاجَةُ: کڑکڑانا اور انڈے یا بیجوں کو پروں کے نیچے کرنا۔

قَرْوَقٌ (س) قَرْوَقًا: ہموار جگہ میں چلنا۔

القَرْوَقُ: بڑی جڑ۔ عادت۔ حقیر لوگ۔ جماعت۔

کہا جاتا ہے "جَاءَ قَرْوَقٌ مِنَ النَّاسِ" لوگوں کی ایک جماعت آئی۔ ج اقْرَاقُ القَرْوَقِ: ایک کھیل ہے۔ خط بھیج کر گویاں رکھ کر کھیلتے ہیں۔ خط کی صورت یہ ہے:

(و القَرْوَقُ والقَرْوَقُ) ہموار جگہ۔

القَرْوَقُ والقَرْوَقُ: بیٹ۔

القَرْوَقَانُ والقَرْوَقَانُ: سیلاب۔

قَرْوَقٌ قَرْوَقَةٌ: البَعِيثُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔ قَرْوَقَتِ الحِمَامَةُ او الدَّجَاجَةُ: کبوتر کا غٹروں کرنا۔

مرغی کا کڑکڑانا: البِطْنُ: بیٹ گزیرانا۔

الرَّجُلُ فِي حَيْضِكِهِ: بہت زور سے ٹھٹھانا۔

الشَّرَابُ فِي حَلْقِهِ: آواز کرنا۔

القَرْوَقَةُ: مہ۔ کبوتر کی آواز۔ بہت زور کی ہنسی۔

چہرہ کی کھال (و القَرْوَقُ) پست نرم زمین۔ ج قَرْوَقِرُ۔

القَرْوَقَارُ: اونٹ کی بڑبڑاہٹ۔

القَرْوَقِرُ والقَرْوَقِرِيُّ: اچھی آواز سے حدی پڑھنے والا۔

القَرْوَقِيَّةُ: بہت بک بک کرنے والی عورت (و القَرْوَقَاةُ) اونٹ کا جھاگ جو مستی کے وقت نکلتا ہے۔

القَرْوَقَاةُ: لمبی گردن کا شیشے کا کپ۔

القَرْوَقُورُ: بڑی کشتی۔ ج قَرْوَقِيئِرُ۔

قَرْوَقَسُ الكَلْبُ وبه: کتے کو قَرْوَقَسُ کہہ کے بلانا۔

القَرْوَقِسُ: پھجر کے بچے۔

القَرْوَقُوسُ: کشادہ میدان۔

قَرْوَقُصٌ: بالجراد۔ کتے کے لمبے کو بلانا۔

القَرْوَقُوصُ: کتے کا پلایا۔ ج قَرْوَقِيئِصُ۔

قَرْوَقَةٌ قَرْوَقَةٌ: کھانکھانا۔

قَرْوَقَفٌ قَرْوَقَةٌ مِنَ البِنْدِ: کچھی زدہ ہونا۔

قَرْوَقَةٌ قَرْوَقَةٌ مِنَ البِنْدِ: کچھی ڈالنا۔

الرَّجُلُ فِي الضَّحْكِ والحِمَامُ فِي الِهْدْيِ: آدمی کا ہنسنے میں اور کبوتر کا غٹروں کرنے میں زیادتی کرنا۔

القَرْوَقُفُ: شراب۔ ٹھنڈا پانی (و القَرْوَقُفُ) ایک چھوٹا سا پرندہ۔

القَرْوَفُوفُ: درہم۔ شراب۔

بِنْدٌ قَرْوَقُفٌ: بلند آواز مرغ۔

القَرْوَقُلُ والقَرْوَقُلُ: بے آستین کا کرتہ ج قَرْوَقِيلُ۔

قَرْوَمٌ: الصَّبِيُّ: بچے کو بڑی خوراک دینا۔

المَقْرَمُ: وہ جو جوان نہ ہو اور قوت نہ پکڑ سکے۔

قَرْوَلِي: ایک چوکنا آبی پرندہ۔

قَرْوَمٌ (ض) قَرْوَمًا وَقَرْوَمًا وَمَقْرَمًا وَقَرْوَمَانًا وَمَقْرَمًا: الصَّبِيُّ والبَنُهْمُ: تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرنا۔

قَرْوَمٌ (ن) قَرْوَمًا: الشَّبِيُّ: چھیلنا۔ الطَّعَامُ: کھانا۔ الزَّجْلُ: گالی دینا۔ تہد کرنا۔

قَرْوَمٌ (س) قَرْوَمًا: إِلَى اللَّحْمِ: گوشت کا خواہش مند ہونا۔ کہا جاتا ہے "قَرْوَمْتُ إِلَى لِقَائِهِ" اس کی ملاقات کا میں شائق ہوا۔

قَرْوَمَةٌ: کھانا کھانا۔ قَرْوَمٌ وَقَرْوَمٌ الفُحْلُ: سانڈ بننے کیلئے کام اور سواری سے فارغ رکھنا۔

اسْتَقْرَمَ: البِكْرُ قَبْلَ أَوَانِهِ: وقت سے پہلے سانڈ بننا۔

القَرْوَمُ: مہ۔ اونٹ کی ناک پر داغ جوئے کے تھیر کی علامت۔ سانڈ جو سواری اور کام سے فارغ رکھا جائے۔ سردار عظیم۔ ج قَرْوَمُ۔

القَرْوَمَةُ والقَرْوَمَةُ: اونٹ کی ناک کی کٹی ہوئی کھال۔

القَرْوَمَةُ والقَرْوَمُ: اونٹ کی ناک کا ٹٹے کا سونق۔

القَرْوَامُ: سرخ پردہ یا باریک کپڑا۔

القَرْوَامَةُ: اونٹ کی ناک سے کٹا ہوا چھوٹا ٹکڑا۔ روٹی کا وہ حصہ جو تھوڑے لگا ہوا رہ جائے۔ عیب۔ اونٹ کا عیب۔

الْأَقْرَامُ مِنَ الحِمَالِ: اونٹ جو باندھنا نہ جائے۔ ناک پر داغ لگا ہوا۔ مَوْتٌ قَرْوَمَاءُ: ج قَرْوَمُ۔

القَرْوَمُ: ایک گھاس جو سفیدی اور موٹائی میں چنار کے درخت کی مانند ہوتی ہے۔

قَرْوَمَةٌ قَرْوَمَةٌ: اللِّكْنَاتُ: باریک کھانا۔ قریب قریب کھانا۔ قَرْوَمَةٌ فِي المَشْيِ: قریب قریب قدم رکھنا۔ الشَّبِيُّ: قدم کا طلا کرنا (دیکھئے

قَرْمَدٌ

القَرْمَدُ: ہر وہ چیز جس کو زہنت کے لیے کسی پر لگائیں۔ جیسے زعفران اور گچ وغیرہ۔ پختہ ٹھیکری۔ اینٹ (دخیل)

القَرْمُودُ: پہاڑی بکرا۔ پہاڑی بکری کا پختہ ج قَرَامِیْدٌ۔

القَرْمِیْدُ: اینٹ جس سے پلاستر کیا جائے جیسے گچ وغیرہ واحد قَرْمِیْدَةٌ (دخیل)

القَرْمِیْدَةُ: پہاڑی بکری ج قَرَامِیْدٌ۔

القَرْمِزُ: سرخ رنگ۔ عِنْدَ الْأَسَاكِفَةِ: وہ کھال جو سرخ رنگ سے رنگی ہوئی ہو۔

القَرْمِزِيُّ: جو سرخ رنگ کا ہو۔

قَرْمَشَةٌ: بگاڑا۔ ناسد کرتا۔ قَرْمَشَ الشَّيْءُ: جمع کرتا۔

القَرْمَشُ والقَرْمِشُ والقَرْمِيشُ: مِنَ النَّاسِ: طرح طرح کے لوگ۔

قَرْمَضٌ وَقَرْمَضٌ: سردی زدہ آدمی کا گرمی حاصل کرنے کیلئے گرمے میں داخل ہونا۔

القَرْمِیضُ: گرمی حاصل کرنے کے لیے گرمے بنانا۔

القَرْمِضَانُ والقَرْمِضُوص: اندر سے چوڑا اور تنگ منہ کا لڑکا جس میں سردی زدہ گرمی حاصل کرتا ہے۔ بھوبھل میں روٹی پکانے کی جگہ۔ کبوتر

کا گھونسل۔ ج قَرَامِیضُ۔ القَرْمِضُوص: شکاری کا گڑھا۔ زمین میں برندہ کا گھونسل۔

قَرْمَطٌ قَرْمَطَةٌ: القَرْمِطُوص: باریک اور قریب قریب لکھنا۔ فِی حَظْوِهِ: قریب قریب

قدم رکھ کر چلنا۔

القَرْمِطُوص: ایک قسم کی پھلی۔ کبریلا کی گولی۔ ج قَرَامِیطٌ۔

القَرْمِطَةُ: شیعوں کا ایک خالی فرقہ واحد قَرْمِطِيٌّ۔

قَرْمَلَةٌ: بچاڑا۔

القَرْمَلُ: بے کاتوں کا ایک کمزور درخت واحد قَرْمَلَةٌ۔

القَرْمَلُ: دو کوبان والا اونٹ۔ ہست اُونُ والا اونٹ کا پختہ۔ ج قَرَامِیلُ۔

وَالصُّوفُ: بالوں یا اُون کا بنا ہوا عورت کا موباف۔

قَرْنٌ (ض) قَرْنَا الشَّيْءُ وَالشَّيْءُ: باندھنا۔ ملانا۔ القَرْنَيْنِ: دو بیلوں کو ایک جوئے میں باندھنا

القَرْنَيْنِ: دو اونٹوں کو ایک رستی میں باندھنا۔

قَرْنٌ (ن) قَرْنَا النَّارَ: دو ٹوٹے میں پھیلے ٹانگوں کا اگلی ٹانگوں کی جگہ میں پڑنا۔ بَيْنَ الشَّيْءِ وَالشَّيْءِ: جمع کرتا۔

قَرْنٌ (س) قَرْنَا: ملی ہوئی بھنوں والا ہونا۔ صفت اَقْرَنَ: قَرِنَ ذُو الْقَرْنِ: بڑے سینک والا

ہونا۔ قَرْنَةٌ: جمع کرتا۔ باندھنا۔ کہا جاتا ہے "قَرْنَتِ الْأَسَازِي لِحِي الْعَجَبَالِ" قیدی رسیوں میں

باندھے گئے۔

قَارَنَهُ قَرَانًا وَمُقَارَنَةً: ساتھی ہونا۔ ملنا۔ اَقْرَنَ: بَيْنَ الْأَمْزِنِ: جمع کرتا۔ (قَرْنٌ الصَّحْبُ)۔

القَرْنُ: دو تیر چلانا۔ دو تیریلوں کو ایک رستی میں لانا۔ سینک والے مینڈھے کی قریبلی کرتا۔ ہر

رات میں ایک سلائی سرد لگانا۔ اللدَّمُ فِی الْعَرَقِ: خون کا رگ میں زیادہ ہونا اور جوش مارنا

أَفَاطِيظٌ وَجْهَ الْغَلَامِ: لڑکے کے چہرے پر پھنسیاں لکھنا۔ السَّمَاءُ: لگاتار برسنا۔ ة:

ہمسر ہونا۔ ایک رستی میں بندھے ہوئے دو اونٹ دینا عَنِ الطَّرِيقِ: راستے سے ہٹ جانا۔ پھر جانا۔

عَلَى غَرَبِهِ: قرضدار پر ٹھگی کرتا۔ اَقْرَنْتِ النَّارَ تَابِلُنْدٌ ہونا۔ الدَّمْلُ: پھوڑے کا پکنا اور

پھوٹنے کے قریب ہونا۔ لِلْأَخْرِ: توانا ہونا۔ عَنَهُ: عاجز ہونا۔

تَقَارَنَ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے کا ساتھی ہونا۔

اَقْرَنَ الشَّيْءُ بَعْدَهُ: متصل ہونا۔ ملنا۔ اِمْتَقَرَنَ الدَّمْلُ: پھوڑے کا پکنا اور پھوٹنے کا

وقت قریب ہونا۔ اللدَّمُ فِی الْعَرَقِ: خون کا رگ میں زیادہ ہونا۔ الرَّجُلُ لِلْأَخْرِ: توانا ہونا۔ لِقُلَانٍ: ہمسر ہونا۔

القَرْنُ: مہ۔ سینک۔ والقَرْنُ فِی الْإِنْسَانِ: انسان کے سر کا وہ حصہ جہاں پر جانور کے سینک

لگتا ہے۔ قَرْنُ الشَّمْسِ: آفتاب کی پہلی شعاع القَرْنُ مِنَ الْمَطَرِ: بارش کا جھلا۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ عَلَيَّ قَرْنِي" وہ میری عمر کا ہے۔ القَرْنُ: سو سال ایک زمانے کے لوگ۔ ایک گروہ کے بعد

ایک گروہ۔ زمانہ کا ایک وقت۔ ج قَرُونٌ۔ القَرُونُ: چھوٹی پہاڑی۔ پہاڑی کی چوٹی۔ قلعہ۔ عورت کے

گیسو۔ القَرْنُ مِنَ الْجَرَادِ: بُدِي کے سر کے دو بال۔ درخت کی چھال کی نئی ہوئی رستی۔ مال یا

اُون کا ایک گھما۔ ج قَرُونٌ وَقَرَانٌ۔ والقَرْنُ مِنَ الْقَوْمِ سردار و مِنَ السَّيْفِ: تلوار کی دھار۔

قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَقَرْنَاهُ: شیطان کی رائے کے پابند و جِنْدُ الْقَرْنِ: گینڈا۔ ذُو الْقَرْنَيْنِ: بادشاہ

اسکندر کلدونی کا لقب۔ منذر بن ماء السماء کا لقب۔

القَرْنُ: کفو۔ ہمسر۔ مقابل۔ شجاعت یا علم میں تفسیر ج اَقْرَانٌ۔

القَرْنُ: مہ۔ دوسرے سے ملا ہوا۔ رستی جس میں دو اونٹ بندھے ہوئے ہوں۔ ترکش ج اَقْرَانٌ۔ تلوار۔ تیر۔ ج قَرَانٌ۔

القَرَانُ: قیدی کے باندھنے کی رستی ہل کے بیلوں کی گردن میں باندھنے کی چھال کی رستی۔

رستی جس کو باندھ کر اونٹ کو کھینچیں۔ ج قَرُونٌ۔ ج ج ایک قسم جس میں عمو اور ج کا احرام ایک

ساتھ باندھے ہیں۔ ج قَرَانَاتٌ۔

القَرْنَةُ: ہر چیز کا اٹھا ہوا کنارہ۔ تلوار یا نیزہ کی دھار۔ ج قَرُونٌ۔

القَارُونُ: فَا-رَجُلٌ قَارُونٌ: تیر و تلوار سے مسلح۔ القَارُونُ: ج قَرَانُ کرنے والا۔

القَرْنِیْنِ: دو سرے کے ساتھ جڑا ہوا۔ ساتھی۔ مصاحب۔ شوہر۔ نفس۔ ج قَرُونَاءُ الْقَرْنِیْنِ الْعَيْنِ: سر گئیں آنکھ۔

القَرَانِيٌّ: نزدیک۔ تانت۔ جو اونٹ کی کھال کی نئی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے "بِجَاءِ قَرَانِيٍّ" طے

ہوئے آئے۔ القَرْنِيَّةُ: قرین کا موش۔ بیوی۔ نفس۔ قَرْنِيَّةٌ

الکَلَامِ: جو کلام کے مراد پر دلالت کرے ج قَرَانِيْنٌ۔ ذُو قَرَانِيْنِ: آنے سانسے کے مکانات۔ القَرَانُ: شیشی۔

القُرُونُ۔ ایک مرتبہ میں دو دور لگے کھانے والا وہ جانور جس کی پھیلی ناٹکیں اگلی ناٹگوں کی جگہ میں دوڑنے میں پڑیں۔ وہ اونٹنی جس کے بیٹھے میں دونوں گھٹنے مل جائیں (۔ والقُرُونَةُ) نفس۔

الاقْرَن۔ سیگوں والا۔ ملی ہوئی ہمنویوں والا۔ مؤنث قرناء۔ حیثۃ قرناء: سانپ جس کے سر پر گوشت کے دو ٹکڑے ابھرے ہوئے ہوں۔

القریناء۔ لویا۔

المقرون۔ جواہل کا۔

المقرون۔ بلند کنارے والا جس کے لیے سیٹگ کے مشابہ بنایا جائے۔

المقرونۃ۔ مقرون کا مؤنث۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو پاس پاس ہوں۔

القرنان۔ مرد دیوٹ۔

القرناء۔ سورۃ جو ہر رکعت میں پڑھی جائے۔

القتروان۔ گھوڑوں کا گلہ۔ کالا۔ فوج کا بڑا حصہ۔

القرنی۔ بس ناٹگوں کا ایک کیرا جو گھبرا کے مشابہ ہوتا ہے اور حمل ہے "القرنی فی عینہا أیہا حسنة" قرنی اپنی ماں کی نگاہ میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔

القرنب۔ جنگلی جوہا۔ جوہا۔ جوہے کا پتہ۔

القرنب کمر۔

قرنس وقرنیس البازی: بازی کی آنکھوں کو سینا۔ قرنس الدینک: مرغ کی لڑائی سے بھاگ جانا۔

القرناس وقرنیاس۔ پہاڑ کا آگے کو نکلا ہوا حصہ۔ چرے کا نکلا۔ القرنوس: موزے کی نوک۔ ج قرابینص۔

سقف مقرنس۔ سیڑھی کی طرز پر بنی ہوئی چھت۔

القرنفل وقرنفل۔ لوگ۔ واحد قرنفل وقرنفلۃ۔

المقرفل من الأظعمۃ: لوگ ڈالا ہوا کھانا۔

قرۃ (س) قرھا وقرہ جلدۃ: کھال کا چھلنا یا بہت مار سے سیاہ ہونا۔ داد کی کثرت سے داغ داغ ہونا۔ صفت اقرہ۔ مؤنث قرہاء ج قرۃ۔

القارہ نا۔ من الجلید: خشک کھال۔

القرہب۔ بوڑھا بیل۔ من المغیر: بہت اون والی بکری۔ القرہب۔ سردار قوم۔ بوڑھا۔

القرہد۔ ناز پروردہ۔ نازک پر گوشت۔

القرہید۔ پہاڑی بکری کے پتے۔

قرایقرو قرۃ الیہ: قصد کرنا۔ بالزنج فلاناً۔ نیزہ مارنا۔ صفت مذکر قارج قرۃ و قازون صفت مؤنث قاریۃ ج قوار و قاریات قوا

و استقری و استقری الامر: تتبع کرنا۔ تلاش کرنا۔ استقری الذمیل: پھوڑے کا پیپ والا ہونا۔

اقری اقرۃ۔ پیٹھ میں درد ہونا۔

القرۃ۔ پیٹھ۔ ج اقرۃ وقرۃ۔ کدو۔

القرۃ۔ مہ۔ شہر کی مانند بسا حوض۔ زمین جس کو طے نہ کیا جاسکے۔ کوہ کی نالی۔ چھوٹا برتن۔ گھوڑ کے درخت کا ٹھپلا حصہ جس کو کھود کر اس میں نیزہ

بنایا جائے۔ لکڑی کا پیالہ۔ کھوکھلا پانس۔ ایک ہی طریقے کی چیزیں۔ کہا جاتا ہے "تو کتھنہم قرۃ و اجدا" میں نے ان کو ایک طریقہ پر چھوڑا۔ و

"قصیدتان علی قرۃ و اجدا" دو قصیدے ایک ردی پر "و تکتب الارض قرۃ" تمام زمین پر بارش چھائی اصبحت الارض قرۃ و اجدا

زمین کی سطح پانی سے ڈھک گئی۔ ج قرۃ و اقرۃ و اقرۃ قرۃ۔

القرۃ و القرۃ۔ خصیبتین کی کھال کی کھچاوت قرۃ الراس: سر کا تارہ۔

القرۃ و القرۃ و القرۃ و القرۃ۔ کتے کا ٹھکرا۔

القرۃ۔ عارت۔ ڈیر۔ ناقۃ قرۃ: لمبے کوہان والی اونٹنی (جمل قرۃ نہیں کہا جاتا)۔

القرۃ۔ پیٹھ یا پیٹھ کا درمیانی حصہ ج قرۃ انات۔

القرۃ۔ جصیتین کی کھال کی کھچاوت والا۔

القرۃ۔ عارت۔ کہا جاتا ہے "رجع الی قرۃ" اپنی عارت پر لوٹ گیا۔

القرۃ۔ ایک ہی طریقے کی چیزیں۔ قرۃ القصیدۃ: قصیدہ کا ردی۔

المقرۃ۔ ٹیلہ کی چوٹی۔ ج مقار۔ المقرۃ۔ لہجہ پیٹھ والا۔

شاة مقرۃ۔ بکری کہ اس کے سر میں ایک لکڑی لگا رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے دودھ کو نہ پی سکے۔

قرۃ یقری قرۃ وقرۃ الضیف: مسمان کی میربانی کرنا (۔ قرۃ وقرۃ) الماء فی الحوض: پانی حوض میں جمع کرنا۔ التبعیر وکل ما استختر: کھال کو جڑے میں جمع کرنا۔

الجنح: زخم کا بسا۔ الجدۃ فی الجنح: زخم میں پیپ کا جمع ہونا۔ کہا جاتا ہے "قرۃ فی شدھی جوزۃ" میں نے اپنے جڑے میں

اخروٹ کو چھپایا۔ قرۃ یقری قرۃ وقرۃ وقرۃ وقرۃ وقرۃ: تلاش کرنا۔ چکر لگانا۔

اقرۃ اقرۃ گاؤں میں رہنا۔ کسی شے کو لازم رہنا اور اصرار کرنا (۔ و استقری) مسمانی طلب کرنا۔

اقرۃ۔ مسمانی طلب کرنا۔ الضیف: مسمان کی میربانی کرنا۔ الیلاد: تلاش کرنا۔ اور چکر لگانا اقرۃ فلاناً بقولہ: تلاش کرنا۔

القرۃ۔ مسمانی کا کھانا۔ پانی جو حوض میں جمع کیا جائے۔

القرۃ وقرۃ۔ جائیداد۔ گاؤں۔ لوگوں کی جماعت۔ ج قرۃ وقرۃ اور نسبت کے لیے

قرۃ وقرۃ۔ قرۃ التمل: چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ۔ قرۃ الانصار: مدینہ طیبہ وقرۃ تان: کتے معظمہ اور طائف۔

القرۃ۔ جمنا ہوا دودھ۔ نیلہ سے بلخ کی طرف بننے والی نالی۔ نالی۔ ج اقرۃ وقرۃ وقرۃ۔

القرۃ۔ لاشی۔ چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ۔ بادیاں کے اوپر کے حصہ کی لکڑی جو عرض میں لگائی جاتی ہے ج قرۃ۔

القرۃ۔ ریائی۔ کہا جاتا ہے "جاءتہی کل قرۃ وباد" میرے پاس ہر ایک رہائی اور شہری آیا۔

القرۃ۔ قاری کا مؤنث۔ مکان لوگوں سے بھرا ہوا۔ تلوار کی دھار۔ نیزہ کا ٹھپلا حصہ یا اوپر کا حصہ۔

ج قرۃ کہا جاتا ہے "ہم قرۃ الی اللہ" وہ اللہ کے شہدا ہیں (۔ و القرۃ) ایک پرندہ چھوٹی

تاگوں اور لمبی چوچ کا جس کی پیٹھ سبز ہوتی ہے۔
ج قوارو قواری۔

القازاة۔ لوگوں سے بھری ہوئی جگہ ج
قاریات۔

المقزوی والمقزاة۔ ہر وہ جس میں بارش کا
پانی جمع ہو۔

المقزوی والمقزاة۔ میزبان۔ بہت مہمانی
کرنے والا۔ مؤنث مقزاة ومقزاة۔ المقزوی
والمقزاة: بڑا پیالہ جس میں مہمان کے سامنے
کھانا پیش کیا جائے۔ ج مقزاة۔ المقزای:
ہانڈیاں۔

قز (ض) قزاً۔ کونے کے لیے سٹھا۔ کودنا۔
قزته نفسی وقزته عنه نفسی: نفرت کرنا۔
انکار کرنا۔ (قزاً وقزراً) من الدنسی وکل
عنا ینستغذز وینستخبث: کمرہ جانا۔ پرہیز
کرنا۔ بچنا۔

القز۔ مع۔ رشیم جس سے نکلا جائے۔ ذوذ
القز: رشیم کا بیڑا۔ ج قزوز (ذخیل)
القزوا القزوا القزوا القزوا۔ گندگی سے
بچنے والا۔ کہا جاتا ہے "ماھی طعابہ قز ولا قز
ولا قزاة" اس کے کھانے میں ایسی کوئی چیز
نہیں جس سے پرہیز کیا جائے اور اسے کمرہ سمجھا
جائے۔

القزاز۔ بڑا سانپ۔ اژدھا۔
القاز۔ شیطاں۔

القازوذة۔ چھوٹی شیشی۔ طشت۔

القزاز۔ رشیم بچنے والا۔ عند العامة:
رشیم کے کبڑے کی تربیت کا ماہر۔

قزب (ن) قزبنا۔ بہت سماع کرنا۔

قزب (س) قزبنا۔ سخت ہونا۔

القزاب۔ سوداگر۔

القزب۔ لقب۔

قزب قزبوة۔ جماع کرنا۔

قزح (ف) قزحاً القندر: بھڑی میں مسالہ
والحا الشقی۔ بلند ہونا۔

پورا کرنا۔ قزح الشجر: بڑھنے کیلئے جڑ میں
پیشاب ڈالنا۔

نقزح التباث او الشجر: زیادہ شاخ دار
ہونا۔

القزح مع۔ کتے کا پیشاب۔ مسالہ۔

قزح قزح وقزح قزح۔ دھنک۔ وہ شکل جو
بادل میں مختلف رنگوں کی کمان کے مانند دکھائی
دیتی ہے۔ قزح منصرف ہے اس لیے کہ قزحہ کی
جمع ہے اور علم معدول کی تقدیر پر غیر منصرف ہے
اور قزح کو قوس سے جدا استعمال نہیں کرتے
پس "تامثل قزح ما ابین قزحہ" نہیں کہا جائے
گا۔

القزح۔ مسالہ۔ پیاز کے بیج۔ سانپ کی بیٹ۔ ج
القزح۔

القزحہ۔ قوس قزح کے رنگ کی ایک دھاری
ج قزح۔

القزح۔ مسالہ بچنے والا۔

القزح فا۔ سیقو قزح: رنگا ہماؤ۔ مؤنث
قزحہ ج قزاح الماء: پانی کے بلبلے۔

القزاح۔ سالے۔

المقزحہ۔ مسالہ کا برتن۔

القزحہ۔ کمان۔

قز (ض) قزدا۔ ارادہ کرنا۔

القزد۔ مع۔ ارادہ۔

قزح (ف) قزوحاً۔ دیر کرنا۔ العظی: ہرن
کا دوڑنا۔ بھاگنے میں جست ہونا۔

قزح الزمؤل الیہ: قاسم بھیجنا۔

القزح: گھوڑے کو دوڑانے کیلئے آمادہ کرنا۔

القزح: مومچھ کاٹنا۔ القزح: گھوڑے کا
تیز دوڑنا۔ راسہ: سر مونڈنا اور کچھ بڑھرا
اُدھر چھوڑ دینا۔

القزح۔ بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔
چھوٹے اُونٹ۔ بالوں کو کچھ مونڈنا کچھ چھوڑ دینا۔

وادئ کا کوڑا کرکٹ۔ قزح السہم: تیر کے پر کا
پتلا حصہ۔ ہر چیز جس کے متفرق ٹکڑے ہوں واحد
قزحہ۔

القزحہ۔ حرابی۔ ولد الزنا۔ بادل کا ٹکڑا۔ سر میں
متفرق بال کٹے ہوئے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ما
عندہ قزحہ یعنی اس کے پاس کچھ کپڑا نہیں۔

القزحہ والقزحہ۔ بالوں کا گھما جو بچے کے سر
پر چھوڑ دیا جائے۔ سر کے درمیان میں تھوڑے
سے بال۔

قزح قزح۔ بمعنی قوس قزح۔

القزح۔ چھتھرے کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے "مناہی
السحاب قزح" یعنی آسمان میں تھوڑا سا بھی
بادل نہیں۔

القزح۔ من الکبشاں۔ مینڈھا جس کے بال
موسم بہار میں کہیں سے گر گئے ہوں کہیں سے
باقی رہ گئے ہوں۔

القزح۔ تیز ہلکا ہلکا۔ وہ شخص جس کے سر پر
کچھ تھوڑے سے بال ہوں۔ بشارت کے لیے

مخصوص کیا ہوا۔ من الخیل: پیشانی پر کم
بال والا گھوڑا۔ زجل مقزح: وہ شخص جس کا بال
برباد ہو جائے اور صرف چھوٹے اُونٹ رہ
جائیں۔

القزح۔ تیز رو۔

قز (ض) قزلاً وقزلاًنا۔ کودنا۔ لنگڑے کی
چال چلنا۔

قز (س) قزلاً۔ لنگڑا ہونا۔ صفت اقزول (قزول
بدترین لنگڑا ہٹ ہے)

الاقزول۔ بھیڑیا۔ باریک پنڈلی والا۔ ایک قسم کا
سانپ۔

قز (ض) قزماً۔ عجیب لگانا۔

قز (س) قزماً۔ کیند ہونا۔ لیم ہونا۔

قزح۔ کاموں میں زبردستی داخل ہونا۔

القزح۔ مع۔ کینکی۔ لٹکی۔ کوتاہی۔ ردی مال۔
حقیر لوگ (واحد جمع مذکر مؤنث) کہا جاتا ہے "هؤ
لاء قزح قزح ما فہم قزح" یہ لوگ کیند ہیں
ان میں کرم نہیں اور کبھی تشبیہ اور جمع اور

سے ہٹ جانا۔ صفت قَابِطٌ ج قُطَاطٌ
وقَابِطُونَ۔

قَسَطَ (ان ض) قَسَطًا وَأَقْسَطَ التَّوَالِي :
منصف ہوا۔ کہا جاتا ہے "أَقْسَطَ لِيْنِ حُكْمِهِ
وَأَقْسَطَ بَيْنَهُمْ وَالْيَهُم" فیصلہ میں انصاف کیا۔
ان کے درمیان انصاف کیا۔ أَقْسَطَتِ الرِّفِخُ
العِيْدَانُ : ہوا اکڑیوں کو خشک کر دیا۔

قَسِطَتِ (س) قَسَطًا العُنُقُ : گردن خشک
ہوئی۔ الدَّابَّةُ : سیدھی ٹانگوں والا ہوتا ہے۔
قُسُوْطًا العِظَامُ : لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا
خشک ہونا۔

قَسَطَ الشَّيْءُ : جدا جدا کرنا۔ الأَعْرَاسُ :
پودوں کے درمیان برابر فاصلہ کرنا۔
الذَّيْنِ : قرض کی قسط مقرر کر دینا۔ کہا جاتا ہے
قَسَطَ العِزَّاجَ عَلَيْنِهِمُ وَالمَالِ بَيْنَهُمْ "یعنی
خراب کا ان کے اوپر قسط مقرر کر دیا۔ اور مال ان
کے درمیان تقسیم کر دیا۔

قَسَطَ عَلَيَّ عِيَالِي : اہل و عیال پر سختی کرنا۔
أَقْسَطَ العَمَالَ بَيْنَهُمْ : تقسیم کرنا۔

تَقَسَّطَ القَوْمُ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ : برابر برابر تقسیم
کرنا۔

القَسَطُ : انصاف۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قَسَطٌ" وہ
عادل ہے "هُم قَسَطٌ" وہ لوگ عادل ہیں۔ حصہ۔
مقدار۔ میزان۔ ترازو۔ میانہ نصف صاع کا۔
روزی۔ قسط مقرر کیے ہوئے قرض کا ایک حصہ
ج أقسطا۔

القَسَطُ : عود ہندی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قَسَطُ
الرِّجْلِ وَقَسِطُهَا" جبکہ پاؤں سخت اور
سیدھے ہوں کہ چلنے میں مڑتے نہ ہوں۔
القَسَطُ : حصہ۔ اعضاء کی سختی یا خشکی۔

الأَقْسَطُ : خشک شدہ گردن والا۔ مؤنث
قَسَطًا ج قَسَطٌ : رجلٌ قَسَطًا : میٹھا بیڑہ
عُنُقٌ قَسَطًا : خشک گردن۔ زَكْبَةٌ قَسَطًا :
خشک شدہ زانو جو مڑنے کے ج قسطا۔
القَسَطَانُ : عمار۔

القَسَطَانُ وَالقَسَطَانَةُ وَالقَسَطَانِي
وَالقَسَطَانِيَّةُ : قوس ترحہ۔ دھنک۔
المُقَسِّطُ : اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے

ایک پہاڑ ہے جس میں لوہے کی کان ہے اور اسی
سے ہے الشُّؤْفُ القَسَائِيَّةُ۔

القَسَّاسُ : چغل خور۔

القَسْبِيْسُ : پادری ج قَسْبِيْسُونَ وَ قَسْبَانُ
وَأَقْسَبَةٌ وَقَسَاوِسَةٌ۔

القَسْبِيُّ : مِنَ الذَّرَاهِمِ : روپی دراہم۔

القَسَّةُ : چھوٹا گاؤں۔

القُسُوسَةُ وَالقَسْبِيْسَةُ : قیس کا درجہ۔

قَسَبَ (ض) أَقْسَبَا المَاءُ : پانی جاری ہونا

۔ الشَّمْسُ : آفتاب غروب ہونے لگنا۔

قَسَبَ (ك) قَسُوْبًا وَقَسُوْبَةَ الشَّيْءِ : سخت
ہونا۔

القَسْبُ : حصہ۔ بہت سخت۔ خشک کھجور جو منہ
میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ واحد قَسْبَةٌ۔

القَسْبَةُ : روپی قسم کی کھجور۔

القَسُوبُ : چمڑے کا موزہ۔ القَسُوبُ : چمڑے
کے موزے (اس کا واحد نہیں)

القَسْبُ وَالقَسْبِيْبُ : ہر ایک لمبی اور مضبوط

پتھر۔

قَسِيْبُ المَاءِ : پانی کا بہاؤ آواز کے ساتھ۔

قَسِيْبٌ قَسِيْبَةٌ : جماع کرنا۔

قَسَحَ (ف) قَسَاخَةً وَقَسُوْحَةً : سخت ہونا

۔ الحَبْلُ : ریش بٹنا۔

قَاتَسَحَهُ : سختی کے ساتھ معاملہ کرنا۔

القَاسِحُ وَالقَسَاخُ وَالْمَقْسُوْحُ : سخت اور
موٹا۔ کہا جاتا ہے "نُؤِبٌ قَاسِحٌ" موٹا پیرا "زَمْعٌ
قَاسِحٌ" ٹھوس مضبوط بیڑہ۔

القَسْحُبُ : موٹا اور بڑا۔

القَسُوْدَةُ : موٹی گردن کا توڑی مرو۔

قَسْرَةٌ (ض) قَسْرًا وَقَسْرَةً عَلَيَّ الأَمْرِ :
مجبور کرنا۔

قَسْرُ الزَّجْلِ : عمر رسیدہ ہونا۔ التَّبْتُ :
بکھرت ہونا۔

القَسُوْرُ وَالقَسُوْرَةُ : غالب۔ شیر۔ بہادر۔ قوی

لِرَاجٍ قَسَاوِرٌ وَقَسَاوِرَةٌ : القَسُوْرَةُ : رات کا

بڑا حصہ۔ ایک سیرانی نجات ج قَسُوْرٌ۔

القَسُوْرَةُ : تیر چلانے والا۔ شکاریوں کی جماعت۔

قَسَطَ (ض) قَسَطًا وَقَسُوْطًا : ظلم کرنا۔ حق

مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ
قَرْمٌ وَزَجْلَانٌ قَرْمَانٌ وَامْرَأَةٌ قَرْمَةٌ وَرَجَالٌ
قَرْمٌ وَأَقْرَامٌ وَقَرَا ضَعْفٌ وَنِسَاءٌ قَرَمَاتٌ"

القَرْمُ وَالقَرَمُ وَالقَرَمُ وَالقَرَمُ لِلنِّمِّمِ اور دنی
مرد۔ مؤنث قَرْمَةٌ وَقَرْمَةٌ وَقَرْمَةٌ وَقَرْمَةٌ۔

القَرْمُ وَالقَرَمُ : چھوٹے جسم والا بچہ خیر۔ ج
قَرْمٌ وَأَقْرَامٌ اور کہا جاتا ہے زَجَلٌ قَرْمٌ وَأَمْرَأَةٌ

قَرْمَةٌ چھوٹے جسم کا مرد۔ چھوٹے جسم کی
عورت۔ مذکر مؤنث دونوں کے لئے۔

القَرَمُ : لیم لوگ۔

القَرَامُ : جس پر کوئی غالب نہ آئے۔ جلدی کی

سوت۔

سُوْدَةٌ أَقْرَمٌ : سرداری جو خاندانی نہ ہو۔

القَرْمَلُ : کوٹاہ قامت بد صورت۔

قَرًا يَقْرُوْ قَرُوًّا : الأَرْضُ بَعْضَاهُ : زمین کو
لاٹھی سے کر دینا۔ الزَجَلُ : عجیب سے زور
رہنا۔ قَرَّةٌ (ایک کھیل ہے) کھیلنا۔

أَقْرَى : بے عیبی کے بعد عجیب دار ہونا۔

القَرَّةُ : سانپ۔ عربوں کا ایک کھیل ج قَرَاتُ
قَرَى الزَّجَلُ : بچھاڑنا اور قتل کرنا (بائی ہے)

القِرْيُ : لقب۔ کہا جاتا ہے "بَنَسُ القِرْيُ

هَذَا" یہ بڑا لقب ہے۔

قَسَّ (ن) قَسَاوِ قَسَاوِ قَسَاوِ : چغل خوری کرنا
۔ القَرْمُ : بڑے کلام سے تکلیف پہنچانا)

قَسَا السَّيْرُ : دوڑنا۔ مَا عَلَيَّ
العَظِيمُ : بڑی پر کا گوشت کھانا اور گودا نکالنا

(وقَسَّ الإِبِلَ) اُونٹوں کو اچھی طرح سے چرانا۔

قَسَّ وَتَقَسَّسَ الشَّيْءُ : طلب کرنا اور
ڈھونڈنا۔ کہا جاتا ہے "تَقَسَّسَ أَحْوَابُهُمْ
بِالْبَيْلِ" اس نے رات میں ان کی آواز پر کان

لگایا۔

قَسَّ قَسُوْسَةً وَقَسْبِيْسَةً : پادری ہونا۔

أَقْسَبَ الأَسَدُ : شیر کا خوراک تلاش کرنا۔

النَّاقَةُ : اونٹنی کا شمار چرنا۔

القَسَّ : پادری کا ان ج قَسُوْسُ۔ اُونٹوں کا

مالک جو ان سے جدا نہ ہو۔ پالا۔

القَسُّ : حلاہ۔ ناہر۔

القَسَّاسُ : سیلاب کا کوڑا کرکٹ۔ آریسیا میں

ہے اور معنی اس کے عادل کے ہیں۔

قَسَطَرُ الدَّرَاهِمِ: دراہم کو پرنکھنا۔

القَسَطَرُ والقَسَطَارُ: مردود اور دو میں۔

القَسَطَرِيُّ: دراہم کو پرنکھنے والا۔ مردودا۔

ذُورِيں: بڑے ذیل ڈول کا۔ ج قساطرہ۔

القَسَطَاسُ والقَسَطَاسُ: ترازو (جدید)

القَسَطَلُ والقَسَطَالُ والقَسَطُولُ

والقَسَطَلَانُ: میدان جنگ کا گردو غبار۔ ج

قَسَاطِلُ: اُمُ قَسَطِلُ: مصیبت۔ موت۔ نَهْوٌ

قَسَطَانٌ: بننے میں شور کرنے والا دریا۔

القَسَطَلَةُ: اونٹ کی بڑبڑاہٹ۔

قَسَطَلَةُ المَاءِ: پانی بننے کی آواز قَسَاطِلُ

الغَيْطِلُ گھوڑوں کی آوازیں۔

القَسَطَلَايَةُ: شفق کی سرخی۔ غبار کی کثرت

والقَسَطَلَانِيُّ: قوس قزح۔ دھبک۔

القَسَطَبُ: مونا اور بڑا۔

قَسَقَسَ قَسَقَسَةً: چرواہا ہوا۔ قَسَقَسَ

الشَّيْءُ: ہلانا۔ قَسَقَسَ بِالْكَتَبِ: کتے کو قوس

قوس کہہ کے ہلانا۔

القَسَقَسُ والقَسَاقِسُ: شیر۔

القَسَقَاسُ: تیز رفتار۔ رہبر۔ رہنما۔ بھوک کی

شدت۔ جاڑے کی شدت۔ عمدہ سخی۔ کند کھوار۔

اندھیری رات۔ شیر۔

قَسَمَ (ض) قَسَمْنَا الشَّيْءَ: اثباتاً۔ تجزیہ کرنا۔

الذَّهْرُ القَوْمُ: متفرق کرنا۔ فُلَانٌ

أَمْوَرُهُ: اندازہ کرنا۔ بَيْنَ النِّسَاءِ: بیویوں کی

باری کی حفاظت کرنا۔

قَسَمَ (ك) قَسَامَةً القَلَامُ: لڑکے کا

خوبصورت ہونا۔

قَسِيمٌ: نا۔ خوبصورت۔

قَسَمَ الشَّيْءُ: جزء جزء کرنا۔ تفریق کرنا۔ کہا

جاتا ہے "قَسَمَ الذَّهْرُ القَوْمُ" زمانے نے قوم کو

متفرق کر دیا۔ الشَّيْءُ: حسین ہونا۔

قَاسَمَةُ: المَالُ: اپنے اپنے حصہ کو لینا۔

قَاسَمَةُ عَلَيَّ كَذَا: قسم کھانا۔

أَقْسَمَ بِاللَّهِ: طغ اٹھانا۔ قسم کھانا۔

تَقَسَّمَ الشَّيْءُ: جدا جدا کرنا۔ الشَّيْءُ: جدا

جدا ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَقَسَّمَتِ المُمَّمُومُ" یعنی

غموں نے اس کو پریشان خاطر کر دیا۔ وَتَقَسَّمَ

فُلَانٌ: فکر کرنا۔ سوچنا۔

تَقَاسَمَ القَوْمُ: آپس میں قسم کھانا ()

وَاقْتَسَمَ القَوْمُ المَالُ: آپس میں تقسیم کرنا۔

إِنْقَسَمَ: تقسیم ہونا۔

إِسْتَقَسَمَ: تقسیم کرنے کو کہنا۔ فکر کرنا۔ سوچنا۔

إِسْتَقَسَمَهُ بِاللَّهِ: قسم کھانے کو کہنا۔

القَسْمُ: حصہ۔ عطیہ۔ رائے۔ ٹک۔ عادت۔

بَارَشٌ: پانی۔ ہانڈی۔ گمان پیدا ہونا اور پھر توت پا کر

یقین ہونا۔ حَصَاةُ القَسْمِ: پانی تقسیم کرنے کی

نکتری۔ اور یہ اس طرح پر کہ سفر کی حالت میں

جب پانی کی کمی ہوتی تھی تو ایک برتن میں نکتری

ڈالتے تھے اور پھر اس پر پانی ڈالتے تھے اتنا کہ

نکتری چھپ جائے پھر ایک آدمی کو پینے کیلئے

دیتے تھے اور پھر اسی طرح کرتے تھے اور یہ اس

لیے تاکہ سب کو پانی برابر پہنچ جائے اور کسی کو

شکایت نہ رہے۔

القَسْمُ: تقسیم شدہ چیز کا ایک حصہ۔ خیر کا حصہ۔

ج أقسام ج أقاسیم۔

القَسْمُ: اللہ تعالیٰ یا غیر اللہ کی قسم ج أقسام۔

القَسْمَةُ: اقسام کا اسم۔ حصہ۔ ج قسم۔

القَسْمَةُ والقَسِيمَةُ: خوبصورتی۔ چہرہ ()

والقَسِيمُ: عطر فروش کا ڈبہ۔ ج قسيمات و

قسيمات۔

القَسَامُ: خوبصورتی۔ مگر یہ کی شدت۔

القَسَامَةُ: خوبصورتی۔ صلح۔ جماعت جو کسی چیز

کیلئے قسم کھائے اور لے لے۔ قسم جو اولیاءِ محفل

کو دی جائے۔ کہا جاتا ہے "حکَمُ القَاصِي

بِالقَسَامَةِ" قاضی نے قسات کا فیصلہ کیا اور

قسات اقسام کا اسم ہے جو صدر کی جگہ پر استعمال

ہوا ہے۔

القَسَامَةُ: مدت کمال۔ تقسیم کرنے والا جس کو

اپنے لیے خاص کر لے۔

القَسَامِيُّ: پہلی تیر پر پڑنے کو پیننے والا۔ دو

چیزوں کے درمیان کی چیز۔

القَسَامُ: قاسم کا ماخذ۔

القَسِيمُ: حصہ۔ تقسیم شدہ حصے کا ایک حصہ ج

أقسام۔ تقسیم کرنے والا ج أقسام و

قَسَامٌ: خوبصورت ج قسم۔

القَسِيمَةُ: قسم کا موٹ۔ عطر فروش کا ڈبہ۔

بازار۔ خوبصورت چہرہ ج قَسَامِيمُ

الأقْسُوْمَةُ: حصہ۔ ج أقاسيم

المَقْسَمُ والمَقْسَمُ: حصہ۔ ج مقاسيم

المَقْسِمُ: تقسیم۔ تقسیم کرنے کی جگہ ج

مقاسيم۔

صَاحِبُ القَسَامِ: نائب امیر اور وہ اموال

غنیّت کا تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔

المَقْسَمُ: قسم۔

المَقْسَمُ: منع غمگین۔ خوبصورت۔ شئی

مُقَسَّمٌ: خوبصورت بنائی ہوئی چیز۔

القَسْمِيلُ: شیر کا پتہ۔

أَقْسَنُ الزُّجْلِ: سخت ہاتھوں والا ہونا۔

إِلْقَانٌ إْفِسْتَانَا وَقَسَانِيَّةُ العَوْدُ: کٹڑی کا

خٹک اور سخت ہونا۔ الزُّجْلُ: مرو کا بوڑھا

ہونا اور خٹک ہونا۔ فِي العَقْلِ: کرگزرنا

الليل رات کا ایک ہونا۔

المُقَسَّمُ: جوانی کی انتہا اور بڑھاپے کی ابتدا

میں ہونے والا۔

قَسَانِيْقَسُو قَسُو او قَسُوَّةٌ وَقَسَاوَةٌ وَقَسَاءٌ

قَسَاءٌ: سخت و درشت ہونا۔ صفت قَاسٍ ج قَسَاءَةٌ

الليل رات کا ایک ہونا۔ اللیل: قَسَاءٌ

درامہ کھانا ہونا۔ صفت قَسِيٌّ۔

قَسِيٌّ قَسِيَّةٌ وَقَسِيٌّ إقْسَاءٌ الشَّيْءُ:

سخت و درشت کرنا۔

قَاسِيٌ مَقَاسَاةٌ الأَلَمَ: تکلیف برداشت کرنا۔

القَسِيَّةُ: سخت۔ مِنَ الدَّرَاهِمِ: کھولنے

در ہم ج قَسِيَّانُ: کہا جاتا ہے "عَشِيَّةٌ قَسِيَّةٌ"

ٹھنڈی شام "يَوْمٌ او عَامٌ قَسِيٌّ" سخت دن یا

سخت سال۔ مگر یہ اس کی لفظ کی وجہ سے سبوتا

سَيِّئاً قَسِيّاً" ہم تیر چال چلے۔

أَرْضٌ قَاسِيَةٌ: تجرّزین جس میں سب کچھ نہ اگے۔

لَيْلَةٌ قَاسِيَةٌ: سخت تاریک رات۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ أَقْسَى مِنَ الصَّخْرِ" وہ پتھر سے زیادہ سخت

ہے۔

المَقْسَاةُ: جو سخت بناوے۔ کہا جاتا ہے

"الذَّنْبُ مَقْسَاةٌ لِلْقَلْبِ" گناہ دل کو سخت

قشر (س) قَشْرًا: مٹی کھال والا ہوتا۔
 تَقَشَّرَ وَانْقَشَّرَ: چھل جانا۔
 انْقَشَّرَ الرَّجُلُ: ننگا ہونا۔ صفت مفتشر۔
 القشر: چمکا۔ لباس ج قَشُور ()
 والقشر بالث کے برابر ایک چمچل۔
 القشوران: مٹی کے دونوں پر۔
 القشر والقشیر: بست چمکے والا۔ کہا جاتا ہے
 ”مَمْرٌ قَشِيرٌ وَقَشِيرٌ“ یعنی چمکے والی گھوڑ۔
 القشر: سخت سرخی۔
 القشرة والقشرة والقشرة: بارش جو سطح
 زمین کو صاف کرے۔ القشرة: منحوس۔
 القشرة: چھال۔
 القاشر: نا۔ من الخيل: گھوڑوں میں
 آخری گھوڑا۔
 القاشرة: قاشر کا مونت۔ پہلا زخم جو کھال کو
 پھاڑے۔ عورت جو اپنے چہرہ کو دل کر صاف
 کرے۔
 القاشور والقاشورة من الاغوام: سخت
 تھکا سا۔ سنة قاشورة وقاشور: تھکا سا سال
 القاشور: منحوس۔ من الخيل: گھوڑ
 دوڑ کا آخری گھوڑا۔
 القشار: سانپ کی کھال۔
 القشارة: آٹا راجا پڑا چھال۔
 الاقشر: چمکا آٹا راجا ہوا۔ کرمی کی وجہ سے چمچل
 ہوئی تاک والا۔ سخت سرخی والا۔ ابرص۔ بست
 سوال کرنے والا۔ من الارض: سرخ
 سفید زمین۔ مونت قشرا ج قشر۔ شجرہ
 قشراء: کہیں کہیں سے چملا ہوا درخت۔ حیتہ
 قشراء کینچلی سے علیحدہ سانپ۔
 القشور: چہرہ کو صاف کرنے والی دوا۔
 المقشر: مہم کہا جاتا ہے ”جاء بالحواب
 المقشر“ واضح جواب دیا ”رجل مقشر“ ننگا
 مرد۔
 المقشر: سوال میں اصرار کرنے والا۔
 قَشَطَ (ض) ن: قَشَطًا: لاٹھی سے مارنا۔
 قَشَطَ عَنْهُ كَذَا: ننگا کرنا۔
 قَشَطَ الرَّجُلُ: لوٹا۔ صفت مقشط۔
 تَقَشَّطَ وَانْقَشَّطَ: ننگا ہونا۔ تَقَشَّطَتْ

الرجل: نیک نامی یا بد نامی اختیار کرنا۔ قَشَبَ و
 قَشَبَ الطَّعَامَ بِالسَّمِّ: کھانے میں زہر ملانا۔
 فَلَانًا بِسَوْءٍ: لوٹ کرنا قَشَبَتِ الرِّيحُ فَلَانًا:
 ہوا کا تکلیف دینا۔ قَشَبَتِ الشَّيْءُ: مہلا چمکا کرنا۔
 قَشَبَ قَشَابَةَ الشَّيْءِ: پاکیزہ ہونا۔ صاف ہونا۔
 انْقَشَبَ: نیک نامی یا بد نامی حاصل کرنا۔
 تَقَشَّبَتِ السَّيْفُ: تلوار کا زنگ خوردہ ہونا۔
 اسْتَقَشَبَهُ: گندہ سمجھنا۔
 القاشب: فا۔ درزی۔ کزور نفس والا۔ واقعی
 عیوب بیان کرنے والا۔
 القشب: گندہ۔
 القشب: نفس۔ زنگ۔ سخت خشک۔ زہر۔
 من الطعام: کھانے کا ردی حصہ ج اقشاب کہا
 جاتا ہے ”رجل قشبت خشب“ بے خیر آدمی۔
 (خشب تابع مہمل ہے)
 القشبة: بے خیر مرد خیس۔
 القشب: زہر ج اقشاب۔
 القشب: نیا پڑا۔ سيف قشبت: صیقل شدہ یا
 زنگ خوردہ تلوار۔
 القشيب: نیا۔ سہرا۔ سفید قشبت وقشبت۔
 سيف قشيب: صیقل شدہ تلوار۔ زنگ خوردہ
 تلوار۔
 القشبيبة: برائی چادر۔
 المقشيب: غیر خالص۔ حَسَبَتْ مُقَشَّبَتْ و
 رَجُلٌ مُقَشَّبُ الْحَسَبِ: مرد جس کا حسب
 خالص نہ ہو۔
 القشيبون: ردی قسم کا دن۔ اون کا وہ حصہ جو
 صاف کرتے وقت گر جائے اور پھینک دیا جائے۔
 القشيار: سخت چمڑی۔ رَجُلٌ قَشْبَارٌ اللَّيْحِيَّةِ
 وقشبارها: لمبی دائرہ والی۔
 قشاج: بروزن طعام۔ بچو۔
 القشاج: خشک۔
 قُوبٌ قَاشِخٌ: سخت کپڑا۔
 قَشْدَةٌ (ن) قَشْدًا: برہنہ کرنا۔ کھولنا۔
 القشدة: پتلا کھنص۔ بالائی۔ ایک بہت دودھ والا
 پودہ۔ والقشادة: گھی کا تھمت۔
 قَشْرَةٌ (ض) قَشْرًا وقشرة: کھال یا چھال
 آٹا راجا۔ القوم: بد گونہ لانا۔

کرنے کا سبب ہے۔
 قَشْرٌ (ن) قَشْرُوشًا: لاغری کے بعد تھومند ہونا
 فَلَانٌ: لاغری کی چال چلنا۔ من
 مَوْضِعٍ: مرض سے صحت یاب ہونا۔
 قَشْرٌ (ض) قَشْرًا النَّبَاتُ: نباتات کا خشک
 ہونا۔ الشئ: جمع کرنا۔ ہاتھ سے رگڑنا
 فَلَانٌ: صدقہ کے ٹکڑے کھانا۔
 قَشْرٌ (ض) قَشْرًا وَقَشْرًا: ادھر ادھر سے
 کھانا۔ قَشْرَةً بَكْلَامِهِ: بد کلامی سے تکلیف
 پہنچانا۔
 قَشْرٌ وَقَشْرٌ وَانْقَشْرَ الْقَوْمُ: چلا جانا۔ اقش
 من المرض: مرض سے صحت یاب ہونا
 واقشبت الارض: زمین میں زیادہ خشکی ہونا۔
 انْقَشْرَ الْقَوْمُ قَوْمًا مَفْرَقًا: ہونا۔
 تَقَشَّشَ وَافْتَشَّ مَا وَجَدَ: سب کچھ کھا
 لیتا۔
 القش: مہ۔ ہڑاؤں۔ ردی قسم کی گھوڑ۔ گھر
 وغیرہ کا کوزا کرکٹ۔
 القشبة: بندریا۔ بندریا کا مادہ پتہ۔ چھوٹے جسم
 کی بچی۔ گھریا کی مانند ایک کپڑا۔ کولتار استعمال
 کرنے میں جو چیتھرا استعمال کیا جائے اور اس کو
 بعد میں چھینک دیا جائے۔
 القشيب: سانپ کی کھال کی آواز۔
 القشيب والقشاش والقشاشی پڑی
 ہوئی جو چیز اٹھائی جائے۔
 القشاش: پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھانے والا
 والقشآن والقشوش: جو معمولی چیز کو اٹھا
 کر کھالے۔
 المقشبة: جھاڑو۔
 قَشَبَتْ (ض) قَشْبًا فَلَانًا السَّمَّ: زہر ملانا۔
 قَشَبَ عَلَيْهِ: بتان لگانا۔ الرجل: عار
 دلانا۔ عیب لگانا۔ بڑی بات کہنا۔ السيف:
 تلوار پر صیقل کرنا۔ الدخان: دھوئیں کا
 تھنوں کو بھردینا۔ کہا جاتا ہے قَشَبِي رِيحُهُ ”اس
 کی بو نے مجھ کو تکلیف دی۔“ الدنال: بھٹل
 زائل کرنا۔
 الشئ: فاسد کرنا۔ بگاڑ دینا وقشبت له:
 زہر ملانا۔ قَشَبَهُ بَشْرًا: برائی سے یاد کرنا قشبت

وَانْقَشَطَتِ السَّمَاءُ صَافٍ بَعْدَ اِبْرَهَوَا -

الْقَشَطَةُ بِالْأَيْ -

الْقَشَاطُ بِرِثْمِي -

الْقَشَاطُ بِمَثَلِ لَوْعَتِي وَالْأَيْ -

الْمِقْطُ - جَمَالٌ يَأْكُلُ أَتْرَانَةَ كَالْأَيْ -

الْمِقْشَطَةُ - عَيْدُ الْعُقَاذِيْنَ رِثْمٌ كَالْأَيْ -

دِهَانٌ كَمَا كَرِهَ كَالْأَيْ -

قَشَعُ (ف) قَشَعَا الْقَوْمُ: مَتَرَقٌ كَرِهَ -

قَشَعَتْ وَأَقْشَعَتِ الرِّيحُ السَّحَابَ: هُوَ أَكَا

بُلْدَانٌ كَوَيْرٌ كَنَدَه كَرِهَ - أَقْشَعُ الْقَوْمُ: مَتَرَقٌ هُوَ -

أَقْشَعُوا عَنِ الْمَاءِ وَالْمَكَانِ: هَمَّتْ جَانِبَهُ طَلِحَهُ

هُوَ جَانِبُ أَقْشَعِ السَّحَابِ: بَادِلٌ كَلَّ جَانِبُ -

قَشِعَ (س) أَقْشَعَا الشَّيْءُ: خَشِكَ هُوَ -

إِنْقَشَعَ اللَّيْلُ رَاتٌ خَتَمَ هُوَ -

إِنْقَشَعَ وَتَقَشَعَ السَّحَابُ: بَادِلٌ كَلَّ جَانِبُ -

تَقَشَعَ الْقَوْمُ: مَتَرَقٌ هُوَ - إِنْقَشَعَ الْقَوْمُ عَنِ

أَمَا كُنْهُمْ: دُورٌ هُوَ - طَلِحَهُ هُوَ - أَلْهَمٌ

عَنِ الْقَلْبِ: بَوْلٌ سَعَمٌ كَالْأَيْ -

الْقَشْعُ - مَهْ - بِرَانِي پوئین - ییوقوف شتر مرغ کا

پڑ - چڑے کا خیر - ج قشوع - پڑانی مکہ -

بڑھاپے کی وجہ سے ڈھیلے گوشت والا زنبیل - ز

بجو - خشک شدہ مٹی کا گلا - خشک کمال ج قشع -

القشع والقشع کھل جانے والا بادل -

القشع والقشع والقشع - حمام کا کوڑا کرکٹ -

القشعة - ج قشاع - القشعة ج قشع -

خشک کمال کا گلا - بادل کا گلا جو کھلنے کے بعد بانی

رہ جائے - القشعة: قشع کا اسم مرہ - پڑانی

پوئین کا گلا - خشک شدہ مٹی کا ایک گلا -

بڑھیا - باو شمال -

القشع - خشک - غیر مستقل مزاج - شاة

قشعة: ذیلی پٹی تیری - آراکة قشعة: گنجان

بست پتوں والا بیلو کار تخت -

القشاع - بوسیدہ گلا - رحمی -

القشاع - مادہ بجو کی آواز -

القشاعة - ریخت -

القشيع من الكلاء: مترق گھاس - کہا جاتا

ہے "هُوَ أَقْشَعُ مِنْهُ" یعنی وہ اس سے اشرف

ہے -

إِقْشَعَزَ جِلْدُهُ: کاپیا - سنا - کھردرا ہونا - خنجر

اللون ہونا - صفت مُقْشِعْرٌ ج مُقْشِعْرُونَ و

قَشَاعِرٌ - وَأَقْشَعَرَتِ السَّنَةُ: قَطْبٌ هُوَ - خشک

سال ہونا - الْأَرْضُ: زہین کا بارش نہ ہونے

سے خشک ہونا - کہا جاتا ہے أَقْشَعَزَ الشَّعْرُ: خوف

یا سردی کی وجہ سے روکنے کھڑے ہونا -

الْمُقْشِعْرُ: بمعنی مُقْشِعْرٌ -

القشعريرة - کچی -

القشاعير - سخت کھال والا غمر سیدہ -

القشعر - کلائی -

القشعم - غمر سیدہ (مرد یا عورت یا گدھ) موٹا

غمر سیدہ شیر - ج قشاعجم وقشاعجم

أَمْ قَشَعَمَ لِرَائِي - مصیبت - بجو - موت -

القشعامة والقشعمان والقشعمان بزاز

گدھ - غمر سیدہ مرد یا گدھ -

القشعامة - جال -

القشعوم - چھوٹے جسم والا - چچری -

قَشِيفٌ (س) قَشِيفًا وَقَشِيفٌ (ك) قَشِيفًا -

وَقَشِيفٌ بِدَحَالٍ هُوَ - پھٹے پڑانے حال والا

ہونا - خشک گزران ہونا - گندہ جسم ہونا - صفت

قَشِيفٌ وَقَشِيفٌ وَقَشِيفٌ: خشک

زندگی گزارنا - تَقَشِيفٌ فِي لَبَاسِهِ: پیوند گے

ہونے اور ملے کچلے کپڑے پھٹنا -

قَشِيفٌ اللَّهُ عَيْشُهُ: خشک زندگی کرنا -

عَامٌ أَقْشِفٌ: سخت سال -

قَشِيفَةٌ مِنَ الْجَزْبِ أَوِ الرَّجْدِي: کھجلی یا

پچک سے صحت یاب کرنا -

تَقَشِيفٌ: صحت یاب ہونا -

القشعيفة - مہ گوشت بھوننے کی آواز -

قَشِمٌ (ن) قَشِمًا الطَّعَامُ: زیادہ کھانا - مزیدار

خوراک کھانا -

قَشِمٌ (ض) قَشِمًا - الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ: داخل

ہونا -

إِقْشِمَةٌ: ادھر ادھر سے کھانا -

القشم والقشم - زمین میں پانی بننے کی نالی -

گوشت جبکہ پک کر سرخ ہو جائے - القشم:

طبیعت - جسم - حال - ہیبت - چربی - جُزْجُ قَشُومٌ -

القشام والقشامة: دسترخوان پر بچا ہوا بیگار

حشر -

القشيم خشک سبزی - ج قشيم - موت -

المقشيم قشيم کا اسم ظرف - اور کہا جاتا ہے

مَا اصَابَتْ الْإِبِلَ مَقْشِمًا أَوْ نَتَّ لَمْ يَرَأِهَا كَو

نمیں پایا -

القشمر - پست تہ - موٹا گھسے ہوئے بدن والا -

قَشَا يَقْشُو قَشُوا وَقَشَى - الْعُذُ: کلائی

چھیلنا - الْوَجْهَ: چہرہ پوچھنا - اور کہا جاتا

ہے قَشَا عَنْ حَاجِبِهِ یعنی اس کو اس کی حاجت

سے باز رکھنا -

أَقْشَى أَقْشَاءٌ: توکمری کے بعد محتاج ہونا -

تَقَشَى: الشئ: چھل جانا -

القاشي - فا - کھوٹا پیسہ -

القشياء - تھوک -

القشوة - کھجور کے پتوں کی نوکری جس میں

عورتیں روٹی یا عطر وغیرہ رکھتی ہیں ج قشياء

وقشوات -

القشوان - کزور - مَوْتٌ قَشْوَانَةٌ -

القشبي من الذراهم: کھوٹے دراهم -

المقشؤ والمقشئ - چھیلنا ہوا -

قَصُّ (ن) قَصًّا الشَّعْرُ وَنَحْوَهُ: قَبِيضٌ سَع

بال وغیرہ کاٹنا - التَّشَاغُ النَّوْبُ: چھور

کاٹنا - ة: کان کے اطراف کو کاٹنا اور کہا جاتا

ہے "مَا يَفْضُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ" کوئی چیز اس کے

ہاتھ میں باقی نہیں رہتی () وَأَقْصَرُ

الْمَوْتُ فُلَانًا: قَرِيبُ الْمَوْتِ هُوَ - کہا جاتا ہے

"صُرِبَ حَتَّى قَصَصَ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ أَقْصَصَ مِنَ

الْمَوْتِ" اس کو مارا یہاں تک کہ موت کے

قریب پہنچا دیا - قَصَّتْ وَأَقْصَتِ الشَّاةُ مَلَّ

ظاہر ہونا - صفت مَقْصٌ ج مَقَاصٌ أَقْصَ

الْأَمِيرُ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ: بدل لے لینا - وَأَقْصَ

الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ: اپنے آپ سے بدل لینے

رہنا -

قَصُّ (ن) قَصَصًا عَلَيْهِ الْخَبْرُ: بیان کرنا (ا)

قَصًّا وَقَصَصًا أَوْ تَوَهُ: آہستہ آہستہ

بیرونی کرنا -

قَصَصَ الشئ: کلائے کلائے کرنا -

قَاصٌ قِصَاصًا وَمُقَاصَّةٌ الرَّجُلُ بِمَا كَانَ

ہوتا۔

أَقْصَدَهُ. ٹھیک نشانہ پر نیزہ مارنا
الْحَيَّةُ فَلَانًا: سانپ کا کسی کو ڈس کر مار ڈالنا۔
إِقْصَدَهُ السَّهْمُ: تیر مارنا اور اسی جگہ تل کر
دینا۔ أَقْصَدَ الشَّاعِرُ: تصانیف لکھنا۔ کہا جاتا ہے
"أَقْصَدَ نَبِيَّ النَّكَ الْأَمْرُ" یعنی مجھے تیرے پاس
آنے پر برا لگتی تھی۔

تَقْصَدُ الْكَلْبُ وَغَيْرُهُ: مرنا۔ تَقْصَدُهُ:
ارادہ کرنا۔ کسی کو اس کی جگہ پر مار ڈالنا
وَأَقْصَدَ الزُّمُحُ: نیزہ ڈالنا۔

الْقَصْدُ: مہم۔ راستہ کی استقامت۔ میانہ
روی۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ قَصْدٌ" یعنی نہ تو بڑے
ڈیل ڈول کا ہے اور نہ ذہلاً ظریفی قَصْدٌ "سیدھا
راستہ" وَإِنَّهُ عَلَى قَصْدٍ لَّيْنٍ وَهَدَايَةٍ رَبِّهِ
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ "اللہ کے اوپر ایسے
راستہ کا بیان کرتا ہے جو سیدھا ہو اور حق تک
پہنچانے والا ہو" هُوَ قَصْدُكَ أَوْ قَصْدُكَ "وہ
تمہارے مقابل ہے۔"

الْقَصْدُ مِنَ الْعُوسُجِ وَنَحْوِهِ: نرم و نازک
شیشیاں۔ ہر خار دار درخت اگتے وقت۔ واحد
قَصْدَةٌ الْقَصْدُ: بھوک۔ زُمُحٌ قَصْدٌ وَقَصِيدٌ
وَأَقْصَادٌ: ٹوٹا ہوا نیزہ۔

الْقَصِيدُ مِنَ الشَّعْرِ: تین سے لے کر زائد
شعروں کی نظم اور بعض نے کہا ہے کہ سولہ سے
لے کر زائد شعروں کی نظم۔ درست اور منہج
کی ہوئی نظم۔ الْقَصِيدُ: موٹا گودا۔ خنک گوشت۔
لاشعی۔ موٹی جوان اونٹنی۔ موٹا کوبان۔

الْقَصِيدَةُ: توڑی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔ ج۔ قَصِيدُ
الْقَصْوَدُ: موٹا گودا۔

الْقَصِيدَةُ مِنَ الشَّعْرِ: سات یا دس اشعار
سے زائد نظم۔ لاشعی۔ تصید کا واحد۔ ج۔ قَصِيدُ
وَقَصَائِدُ۔

الْقَاصِدُ: ف۔ مِنَ السَّفَرِ: آسان اور قریب کا
سفر۔ ظریفی قَاصِدٌ: سیدھا راستہ۔ ج۔ قَوَاصِدُ۔
الْقَاصِدَةُ: قاصد کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے "نَبَيْتُنَا
وَبَيْنَ الْمَاءِ لَيْلَةٌ قَاصِدَةٌ" ہمارے اور پانی کے
درمیان ایک رات کی مسافت ہے۔ جس میں نہ
تعب ہے اور نہ تاخیر ج۔ قَوَاصِدُ۔

الْمُقْصَدُ: مہم۔ جو شخص بیمار ہو اور فوراً مہم
جائے۔

الْمُقْصِدُ: مکان۔ قصد۔ تم کہتے ہو "بابک
مقصدی" تمہارا دروازہ میرے لیے جائے قصد
ہے۔ ج۔ مَقْاصِدُ۔
رَجُلٌ مُقْصِدٌ وَمُقْتَصِدٌ: درمیانے جسم کا نہ
موٹا نہ لاغر۔

الْمُقْصَدَةُ: مہم۔ علامت جو اونٹوں کے کان
میں ہوتی ہے۔

الْقَصْدِيُّ: رائگا۔ ایک معدنی چیز ہے جس سے
جزائی اور قلعی کا کام لیا جاتا ہے۔ ایک ٹکڑے کو
قَصْدِيَّةٌ کہتے ہیں۔

قَصْرٌ (ن) قَصْرٌ الشَّيْءُ: ناقص ہونا۔ ارزاں
ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ: زکنا اور عاجزی کی وجہ
سے چھوڑ دینا۔ عَنَهُ الْعَضْبُ أَوْ
الْوَجْعُ: غضب یا درد میں سکون ہونا۔
السَّهْمُ عَنِ الْهَدَفِ: تیر کا نشانہ پر نہ پہنچنا
هَذَا الْبَيْعَةُ: مقصود کو نہ پہنچانا۔

الطَّعَامُ: بڑھنا۔ اللِّحْمُ: گراں ہونا
قَصْرًا (ف) قَصْرًا: قَبْدٌ التَّجْوِيزِ: تنگ کرنا
الصَّلَاةُ مِنَ الصَّلَاةِ: چار رکعت کے بجائے دو
رکعت پڑھنا۔ الشَّيْءُ: روکنا۔
السِّتْرُ: پردہ لگانا۔ بِهَ الذَّلِيلُ: روکنا۔
الذَّائِرُ: گھرو پورا دور سے محفوظ کرنا اور کہا جاتا
ہے "قَصْرَتْ بِكَذَا نَفْسُكَ" جبکہ تم شی لیل
کو مانگو۔

قَصْرُهُ (ض) قَصْرًا: فِي بَيْتِهِ: قید کرنا۔ عَنِ
الْأَمْرِ: لوٹنا۔ واپس کرنا۔ قَصْرَ الشَّيْءِ عَلَى كَذَا:
مُحَصِّرٌ كَرْتًا: محدود کرنا۔ قَصْرَ نَفْسِهِ عَلَى كَذَا:
دوسرے کی طرف نگاہ نہ اٹھانا۔ الظَّلَامُ:
مغلط ہونا۔ وَقَصْرَ عَلَى نَفْسِهِ نَاقَةً: اپنے لیے
خاص کر لینا۔ نَاقَةً كَوْمَقْصُورَةَ كَمِيسَ كَيْسَ
الشَّيْءِ: چھوٹا کرنا۔

قَصْرٌ (ك) قَصْرًا وَقَصْرًا وَقَصَاةٌ: چھوٹا
ہونا۔

قَصِيرٌ (س) قَصِيرًا: خنک گردن والا ہونا۔ گردن
میں درد ہونا۔ صَفْتٌ قَصِيرٌ وَأَقْصَرُ: مؤنث
قَصِيرَةٌ وَقَصْرَاءُ۔

قَصْرٌ: الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا۔ الْقُزْبُ:
کپڑے کو پلچٹا اور سفید کرنا۔ فِي
الْعَطِيَّةِ: کم کرنا۔ فِي الْأَمْرِ: کوتاہی کرنا۔
قَصْرٌ عَنِ الْأَمْرِ: باوجود قدرت کے زکنا
عَنِ شَعْرِهِ: بال چھانٹنا۔ عَنِ
الشَّيْءِ: طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے چھوڑنا
عَنَهُ الْوَجْعُ أَوْ الْعَضْبُ: درد یا غصہ میں
سکون ہونا۔

أَقْصَرَهُ: چھوٹا کرنا۔ طویل کم کرنا
فَلَانٌ: شام کے وقت داخل ہونا۔ أَقْصَرَتْ
الْمَرْأَةُ: چھوٹے چھوٹے بچے جنا۔ أَقْصَرَ
الْمَطْلُ: بارش زک جانا۔ الْكَلَامُ: مختصر
کلام کرنا۔ مِنَ الصَّلَاةِ: بجائے چار کے
دو رکعت پڑنا۔ وَتَقْصُرُ عَنِ الْأَمْرِ:
باوجود قدرت کے باز رہنا۔ تَقْصُرُ الزُّجُلُ:
کوتاہی ظاہر کرنا۔ تَقْصُرُ الظِّلُّ: سایہ کا سٹپنا۔
تَقْصُرَتْ نَفْسُهُ: بے تکلف چھوٹا ہونا۔

تَقْصُرُ الْبَقْلَانُ: مشغول ہونا۔
أَقْصَرَ عَلَى كَذَا: اکتفا کرنا۔ اِقْصَرَهُ:
گردن کی جڑ پکڑنا۔

إِسْتَقْصَرَهُ: کوتاہیا کوتاہی کرنے والا سمجھنا۔
الْقَاصِرُ: ف۔ مَاءٌ قَاصِرٌ: گھاس سے
دور اور بقول بعض مُخْتَدًا۔ كَلَامٌ قَاصِرٌ: گھاس
کہ اس کے اور پانی کے درمیان میں کتنے کی آواز
کے پہنچنے کا فاصلہ ہو۔

الْقَاصِرَةُ: (قاصر) کامؤنث۔ إِسْرَاءُ قَاصِرَةٌ
الطرف: عورت جو اپنی نگاہ کو صرف اپنے شوہر
ہی پر مرکوز رکھے۔

الْقَصْرُ: مہم۔ بہت کڑی۔ مغل۔ قَصْرٌ
المنجد: مجدد شراکت کی کان۔ ج۔ قَصُورُ۔

الْقَصْرُ: چھوٹا پن۔
الْقَصْرُ وَالْقَصَارُ وَالْقَصَارُ وَالْقَصَارِيُّ
غایت۔ اتنا۔ کہا جاتا ہے "قَصْرُكَ أَوْ قَصَارُكَ
أَوْ قَصَارُكَ أَوْ قَصَارُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا"
تمہاری اتنی طاقت یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ کہا جاتا
ہے "إِنَّ عَيْتِي قَصْرَةٌ أَوْ قَصْرَةٌ" وہ میرا قریبی
بچھاڑا بھائی ہے۔
الْقَصْرُ وَالْقَصْرَةُ وَالْقَصْرِيُّ وَالْقَصْرِيُّ

والقُصَاةُ غلہ کاوزا کرکے جو چھلنی میں باقی رہ جائے۔ دائیں کرنے کے بعد خوشہ میں جو دانہ باقی رہ جائے۔

القُصْرَى والقُصْرَى - سانپ کی ایک قسم۔
والقُصْرَى - آخر امر۔

القُصْرِيَانِ - بلی کی دو بڑیاں جو چنبر گردن کے قریب ہیں۔

القُصْرَى والقُصْرَى - دائیں کرنے کے بعد خوشہ میں جو دانہ باقی رہ جائے۔ اور کہا جاتا ہے "رجلٌ قُصْرِيٌّ" یعنی خاص اور اسی کی نظیر ہے "رجلٌ عُيْبِيٌّ" یعنی عام۔

القُصْرَةَ - کڑی کا ٹکڑا۔ پرندہ کی ذم کی جز۔ گردن کی موٹی جز۔ ج قُصْر و اُقْصَار والقُصْرَاتُ القُصْرَةَ - کالی سستی۔

القُصَاةُ - کشادہ۔ مضبوط مکان۔ قُصَاةُ الأَرْضِ - زمین کا زرخیز ٹکڑا۔

القُصَاةُ - دھولی کا پیشہ۔ پست تد عورت۔ کہا جاتا ہے امرأَةٌ قُصَاةٌ یعنی پست تد عورت۔

قُصْر - شاہانِ روم کا لقب قُصَاةٌ قُصَاةٌ القُصَارُ والقُصَاةُ - ہار مالا ج نقاصین۔

القُصَيْرُ - چھوٹا۔ چھوٹے تد والا۔ سُنُّ القُصَيْرِ - سیلاب جو وادی کو نہ بھرے۔ قُصَيْرٌ العِلْمِ - کم علم۔ ج قُصَارٌ والقُصَارُ مَوْتٌ قُصَيْرَةٌ ج قُصَارٌ والقُصَيْرَاتُ والقُصَاةُ - الأحادیث القُصَارُ - جامع اور مفید باتیں۔

القُصَيْرَةُ والقُصْوَرَةُ والقُصْوَرَةُ مِنَ النِّسَاءِ - وہ عورت جس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ ابْنُ عُيْبِيٍّ قُصَيْرَةٌ" وہ میرا قرہن ہی بچا زاد بھائی ہے۔

القُصَارُ - اسم مبالغہ۔ دھولی۔

الأُقْصَرُ - اسم تفضیل۔ ج الأُقْصَارُ والأُقْصَرُونَ مَوْتٌ قُصْرِيٌّ ج قُصْرٌ وقُصْرِيَّاتٌ - الأُقْبِسِرُ - بعض عرب کے ایک بت کا نام۔

المُقْصِرُ والمُقْصِرَةُ - دھولی کا تختہ۔

المُقْصِرُ والمُقْصِرُ والمُقْصِرَةُ - شام۔ ج مقاصیر ومقاصیر مقاصیر الطزق۔ راستے کے اطراف۔ واحد مقْصِرَةٌ۔ کہا جاتا ہے هُوَ جَارِيٌّ مَقْصِرِيٌّ یعنی اس کا محل میرے محل

کے مقابل ہے۔

المُقْصِرُ - درخت کی جڑیں۔ واحد مَقْصِرٌ۔

المُقْصُوْرَةُ - مضبوط کشادہ مکان۔ حویلی۔ ذلین کا مزین کرہ۔ مَقْصُوْرَةُ الدَّارِ - کرہ ج مقاصیر اور کہا جاتا ہے "هُوَ ابْنُ عَمِيٍّ مَقْصُوْرَةٌ" وہ میرا قرہن ہی بچا زاد بھائی ہے۔

قُصْعٌ (ف) قُصْعًا - پانی کے گھونٹ لگانا۔

القُصْلَةُ بِظُفْرِهِ - جوں کا ناخن سے مار ڈالنا۔

قُصِعَتِ الرَّحَى الحَبُّ - بچل کا دانہ کو چینا۔ الرَّجُلُ - ذلیل کرنا۔ حقیر کرنا۔ قُصِعَ الرَّجُلُ او هَامَتَهُ - سر پر تھپڑ مارنا۔

قُصِعَ وَقُصِعَ النَّيْتُ - لازم رہنا۔ المَاءُ عَطَشُهُ - بچانا۔ کہا جاتا ہے "قُصِعَ او قُصِعَ الشَّيْطَانُ فِي قَفَاةٍ" یعنی غضبناک ہوا اور بد خلق ہوا۔

قُصِعَ وَقُصِعَ الجُرْحُ بِالذَّمِّ - زخم کا خون سے بھرنا۔ التَّفَادِي بِجُرْحَيْهَا - جگال کو لوٹا کرنا۔

قُصِعَ الرَّجُلُ فِي نُوْبِهِ - کپڑے میں لپٹنا۔ قُصِعَ الصَّبُّ - گورہ کا سوراخ کے منہ کو بند کرنا۔ قُصِعَ الرَّزْمُ مِنَ الأَرْضِ - اُتَا۔

قُصِعَ (س) قُصْعًا وقُصِعَ (ك) قُصَاعَةً الغُلَامُ - جوان ہونے میں تاخیر ہونا۔

تَقْصَعُ الجُرْحُ بِالذَّمِّ - زخم کا خون سے بھرنا۔ النَّيْتُ - لازم رہنا۔ النَّزْوُوعُ الثَّرَابِ - جنگلی چوہے کا سوراخ سے مٹی نکالنا۔

القُصْعَةُ - پیالہ۔ ج قُصْعٌ وقُصَاعٌ وقُصَاعَاتٌ - القُصَاعُ - کاسہ ساز۔ پیالہ بنانے والا۔

القُصْعَةُ ج قُصْعٌ والقُصْعَةُ والقُصَاعُ والقُصَاعَةُ والقُصَاعُ ج قُصَاعِجٌ والقُصْعَاءُ - جنگلی چوہے کا ٹال۔

الغُلَامُ القُصِيعُ - مَوْتٌ قُصِيعَةٌ وقُصِيعٌ و القُصِعُ مَوْتٌ قُصِيعَةٌ والقُصِيعُ - مَوْتٌ مقصورہ پر ہیں جوان ہونے والا۔

المُقْصِعُ مِنَ السُّيُوفِ - شمشیر رال۔

إِقْصَعَلَتِ الشَّمْسُ - آفتاب کا وسط آسمان میں پہنچنا۔

القُصْعُلُ - کینہ۔ نااہل۔ بچھو۔ بچھو کا بچہ۔

بمِخْرِيٍّ كَالْبُخْرِيٍّ -

قُصِفَ (ض) قُصْفًا الشَّقِيُّ - تُوْرْنَا - الشَّقِيُّ - ٹوٹا۔ قُصْفًا وقُصِفًا - الزَّعْدُ - بادل کا زور سے گرجنا۔ البُخَيْرُ - اُونٹ کا دانت پینا اور بڑھانا۔

قُصِفَ (ن) قُصْفًا وقُصْفًا - کھانے پینے کھیل کر دوس زیادہ مشغول رہنا۔

قُصِفَ (س) قُصْفًا الغُوْدُ - کمزور و ضعیف ہونا۔ مَفْتٌ أَقْصَفٌ وقُصِفَ - النَّبْتُ - لمبے ہونے کی وجہ سے جھک پڑنا۔ الرَّجُلُ - کمزور و ضعیف ہونا۔ الرَّوْمُ - نیزہ کا عرض میں پھٹ جانا۔ النَّابُ - دانت کا آدھا ٹوٹا۔ القَنَاةُ - بغیر دھارے ٹوٹا۔

قُصِفَةُ تُوْرْنَا - أَقْصَفُ - الغُوْدُ - نرم و باریک ہونا۔ أَقْصَفُوا عُنْتَهُ - عاجز ہو کر بچھو ڈرنا۔

تَقْصِفُ - ٹوٹنا۔ عَلَيْهِ القَوْمُ - قوم کا اکٹھا ہونا۔ القَوْمُ - قوم کا جھگڑے یا دھمکی میں شور مچانا۔

تَقْصِيفُ القَوْمِ - اکٹھا ہونا۔ بھیز کرنا۔

إِنْقَصَفَ - ٹوٹنا۔ السَّنْبِلُ - سیلاب کا رواں ہونا۔ القَوْمُ - عُنْتَهُ - سستی کی وجہ سے چھو ڈرنا۔ عَلَيْهِ - پے در پے آنا۔

القُصْفُ والقُصُوفُ - کھیل کود کھانے پینے میں مشغولیت۔ القُصْفُ - باجہ کی آواز۔ شور۔ کھیل کود کا اعلان۔

القُصُوفُ والقُصْفَةُ - اُونٹ کی بڑبڑاہٹ۔ اُونٹ کے دانتوں کی آواز۔

القُصْفَةُ - ششوروں کی جماعتوں کا ایک دوسرے پر دباؤ۔ سیرم کی کا پیہ۔ مِنَ القَوْمِ - بھیز جو جہ قُصْفٌ وقُصْفَانٌ - القاصيف - فا - زَعْدٌ قاصيفٌ - بت گرنے والا بادل۔ رِيحٌ قاصيفٌ او قاصيفةٌ - بت تیز ہوا۔

القُصِفُ - مرد سریع الاكسار۔ القُصِفُ البَطْنُ - بھوک کی تاب نہ رکھنے والا۔ والقُصِيفُ - دو برابر حصوں میں ٹوٹا ہوا۔ القُصِيفُ درخت کا ٹوٹا ہوا حصہ۔

الأقْصَفُ - وہ شخص جس کا دانت آدھے حصہ

قَصِي تَقْصِيَةُ النَّاقَةِ: بمعنى قَصَا يَقْضُو
الأَطْفَارَ: ناخن تراشنا۔

قاصي مَقَاصَةُ الرَّجُلِ: دُور کرنا۔ کہا جاتا ہے "قاصي فَقَصُونَهُ" اس نے مجھ سے دُور ہوا چاہا میں اس سے زیادہ دُور ہو گیا اور یہ افعالِ مخالفہ میں سے ہے "هَلَمْ أَقَاصِيكَ أَيُّهَا أَبْنَعَدُ مِنَ الشَّيْءِ" اُو تم سے متابلہ کریں دیکھیں ہم میں سے شر سے کون بعید ہے۔

أَقْضَى فَلَانًا عَنَهُ: دُور کرنا _____ الشَّيْءِ: انتہا پر پہنچانا۔ کہا جاتا ہے "تَوَلَّنا مَنْزِلًا لَّا يَقْضِيهِ البَصَرُ" ہم ابھی جگہ میں اترے جس کی امتداد بعصرے خارج ہے۔

تَقْضَى تَقْضِيًا: دُور ہونا (_____ واستغْفلي) المسألة وَفِيهَا: مسئلہ کی تکو پہنچانا۔ وَتَقْضَاهُمْ: بعید لوگوں میں سے ایک ایک کو بلانا۔

القَصَا: مہ۔ دُور کاتب۔ کنارہ۔ کہا جاتا ہے "حَطِي القَصَا" یعنی مجھ سے دُور ہو جا۔ وَ "ذَهَبَتْ قَصَاةٌ" میں اس کی طرف چلا۔ القَصَا: اونٹنی یا بکری کے کان کے کنارے سے تھوڑا سا کٹا ہوا حصہ (_____ والقَصَاء) گھر کے سامنے کا صحن۔

القَصْوَةُ: کان کے اوپر کے حصہ پر داغ۔ القَصِي: دُور۔ جِ أَقْضَاءِ مَوْتِ قَصِيَّةِ جِ قَصَايَا: کہا جاتا ہے "زَمَيْتَ المَرْطِي القَصِي" یعنی تم گمان اور تاویل میں بہت دُور چلے گئے۔ القَصِيَّة: اصل اُونٹنی یا بکری کا اُونٹنی۔

القاصي: فا۔ دُور۔ بعید۔ قاصون وأقضاء: القاصية: قاصی کا مَوْت۔ کنارہ۔ نَعَجَةٌ قاصِيَّةٌ: بوزی بھیڑ۔ القاصية مِنَ الشاء: ریوڑ سے علیحدہ ہونے والی بکری۔

الأقضي: مَوْتِ قَصَوَاءِ وَالمَقْضُو وَالمَقْضِي وَالمَقْضِي مِنَ الجَمَالِ: اونٹ جس کے کان کا کنارہ ڈر سا کٹا ہوا اور ایسے ہی شَاءَ مَقْضُوَةٌ وَمَقْضَاةٌ۔

الأقضي: اسم تفضيل۔ زیادہ دُور۔ جِ أَقْاصِي مَوْتِ قَصَوِيٍّ وَقَصِيًا: القَصَوِيُّ وَالقَصِيَا: وادی کا کنارہ؛ دُور کی

الرَّجُلِ: ہلاک کرنا _____ فَلَانٌ: سفر توڑنا اور واپس آنا اور کہا جاتا ہے "قَصَمَ اللّهُ ظَهْرَ الظَّالِمِ" اللہ ظالم کی پیٹھ کو توڑے یعنی اس پر کوئی مصیبت نازل کرے "وَ قَصَمَ اللّهُ عَمْرَ الكافرِ" اللہ نے کافر کی زندگی ختم کر دی۔

قَصِمْتُ (س) قَصَمًا: سَنَةً: اگلے دانت کا نصف سے ٹوٹا۔ تَقَصَّمُ وَانْقَصَمَ: ٹوٹا۔

القَصَمُ: اگلے دانت کا نصف سے ٹوٹا۔ ٹڈی کے اٹڑے۔ واحد قَصَمَةٌ۔ القَصْمَةُ وَالقَصْمَةُ: ٹکڑا۔

القَصْمَةُ: قَصَمَ كَأَمْرَةٍ: بیڑھی کاپیہ؛ ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے تَوَلَّتْ بِهِمْ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ" یعنی ان پر ہلاکت واقع ہوئی۔

القَصِيمُ وَالقَصِيمُ: جلدی نوٹے والا۔ کزور۔ القَصِيمَةُ: قَصِيمٌ كَأَمْرَةٍ: رہتی زمین جس میں کثرت سے عناقہ درخت ہوں۔ جِ قَصِيمٌ وَقَصِيمٌ وَقَصَائِمٌ: کہا جاتا ہے "ذَهَبُوا إِيْ حَاطِبُونَ فِي القَصِيمِ" وہ لوگ عناقہ درخت کی ٹکڑیوں کو چن رہے تھے۔

القَصِيمُ: ہر جگہ کو توڑ دینے والا۔ الأَقْصِيمُ: وہ شخص جس کا گلا دانت ٹوٹا ہوا ہو۔ مَوْتِ قَصَمَاءِ جِ قَصِيمٌ: القَصَمَاءُ مِنَ المَغْرِبِ: بکری جس کا سینگ ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا ہو۔

قَصَمَلَ الرَّجُلُ: چلنے میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا _____ هُ: پچھاڑ دینا _____ الشَّيْءِ: کانا _____ الطَّعَامِ: سب کھا جانا (_____ وَ قَصَمَلَ القَصِيلُ: قَصَلَ كِي بِيَارِي وَالا هُوَ (قَصَمَلَ) ایک بیماری ہے جو اونٹوں کے بچوں کو ہوتی ہے جس سے وہ مرجاتے ہیں۔

القَصَمَلَ وَالقَصِيمَلَ: مضبوط مرد۔ القَصِيمَلَ: شیر۔ کہا جاتا ہے "التَّقَمَةُ القَصَمَلِي" یعنی بہت حرم سے کھایا۔

قَصَا يَقْضُو قَصَوًا وَقَصَوًا وَقَصَا وَقَصَا وَقَصِي يَقْضِي قَصَا المَكَانِ: دُور ہونا۔ الرَّجُلِ عَنِ القَوْمِ: علیحدگی اختیار کرنا۔ قَصَا يَقْضُو قَصَوًا النَّاقَةَ أَوِ الشَّاءَ: اُونٹنی یا بکری کے کان کا تھوڑا سا کنارہ کاٹ دینا۔

سے ٹوٹ جائے۔ المَقْصِفُ: کھانے پینے کھیل کود کی جگہ جِ مَقْاصِفُ (مولدہ) قَصَمَلِي قَصَمَلَةُ: الطَّعَامِ: سب کھانا۔

قَصَقَصَ: الشَّيْءِ: توڑنا _____ بِالْجِرْدِ: کتے کے لیے کو بلانا۔ تَقْصَقَصَ: التَّوَهُ: بیرونی کرنا _____ كَلَامَةً: یاد کرنا۔

حَيَّةٌ قَصَقَا وَ قَصَا قَصَ غَيْثِ سَابِ: أَسَدٌ أَوْ رَجُلٌ قَصَا قَصَ جِ قَصَا قَصَ وَ قَصَا لَصَاتِ (وَ قَصَقَصَ وَ قَصَقَصَا وَ قَصَقَصَا) مونا یا پرتہ تدشیر یا مرد۔

القَصَقَصَ: سینہ میں ہال ٹکنے کی جگہ۔ آواز۔ قَصَلُ (ش) قَصَلًا الشَّيْءِ: کانا۔ صفت فاعلی قاصیل اور صفت مفعولی قَصِيلٌ وَ مَقْضُونٌ _____ الجَنْظَةُ: گیہوں کا دائرہ کرنا _____ الذَّابَّةُ وَعَلَيْهَا: جانور کو کئی کھانا۔ چارہ دینا _____ عَنَقَهُ: گردن پر مارنا۔

تَقَصَّلَ وَانْقَصَلَ: کٹنا۔ اِنْقَصَلَ الشَّيْءُ بَكَانًا _____ الشَّيْءِ: کٹنا۔ اِفْصَالَ بِهِ: بقبض کرنا _____ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

القَصَلُ: مہ۔ (_____ وَ القَصَلُ وَ القَصَلُ وَالقَصَالَةُ) گیہوں کا ردی حصہ جو چھینک دیا جائے یا دو بارہ واپس کیا جائے۔ القَصَلُ: بے خبر۔ یوقوف۔ کزور۔ مَوْتِ قَصَلَةٌ۔

القَصَلَةُ وَالقَصَلَةُ: اونٹوں کا گلہ۔ سَيْفٌ قَاصِلٌ وَ قَصَالٌ وَ مَقْصَلٌ: شمشیر۔ براں۔ لِسَانٌ مَقْصَلٌ: تیز زبان۔ القَصَالُ: شیر۔

القَصِيلُ: سبز جو۔ جو کاٹ کر جانوروں کو چارہ دیا جائے۔ جماعت۔ جِ قَصَلَانٌ: نغمہ کی اصطلاح میں قَصِيلٌ وہ کھیتی جو ابھی تیار نہ ہوئی ہو۔

المَقْصَلَةُ: مار ڈالنے کا ایک آلہ جس میں چھری ہوتی ہے اور مجرم کے سر پر گرتی ہے۔ القَصْلَبُ: قوی۔ توانا۔

قَصَمَ (ش) قَصَمًا الشَّيْءِ: توڑنا _____

سے قبل سوار ہونا۔ **فَلَانًا**: اچھی طرح سے کام کرنے کی صلاحیت سے قبل اس کے کرنے کی تکلیف دینا۔
القضب: لمبی اور لٹکی ہوئی شاخوں والا درخت۔ ایک درخت کا نام جس کی کٹڑی سے کمان بنایا کرتے تھے۔ کئی ہوئی شامیں۔ واحد **قُضْبَةٌ**۔

القضبۃ: شاخ۔ درخت نبع کا بے پناہ تیز۔
ج قضبات۔ القضبۃ: ساگ ترو تازہ جو کھلایا جائے ج قضب۔

القضبۃ: اونٹوں یا بکریوں کا گلہ۔ سبک اور لطیف (مرد یا اونٹنی)

القضبۃ: کئی ہوئی شاخ۔ بغیر سدھائی ہوئی اونٹنی۔ ج قضبان وقضبان۔ القضبۃ: شمشیر برائے کمان جو درست شاخ سے بنائی ہوئی ہو۔

سَيْفٌ قَاضِبٌ ج قَوَاضِبٌ وَقَضَابٌ وَ قَضَابَةٌ وَمَقْضَبٌ۔ بہت تیز کاٹنے والی کھوار زجل قَضَابَةٌ: امور کا اچھی طرح طے کرنے والا۔

القاضبۃ: قاضب کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے "مفایق فی قاضبۃ" یعنی میرے منہ میں کوئی دانت نہیں۔

القضابۃ: کئی ہوئی چیز کے ٹکڑے۔
المقضب: دراتی۔

المقضب: دراتی۔ بہت کاٹنے والا۔
أَرْضٌ مَّقْضَابٌ: سبزہ دار زمین۔ ساگ پات اگانے والی زمین۔

المقضبۃ: ساگ پات اگانے کی جگہ۔ ج مقاضب ومقاضب۔

المقضبۃ: کام کی صلاحیت نہ ہونے سے پہلے اس کے کرنے کی تکلیف دیا ہوا۔ اوزان شعر میں ایک بحر کا نام۔ **مِنْ الشَّعْرِ وَالْكَلَامِ**: نبی البدیہ شعرا کلام۔

قَضَعَةُ (ف) قَضَعًا: مغلوب کرنا۔ مقهور کرنا۔
إِنْقَضَعَ عَنَّهُ: دور ہونا (۔) وَتَقَضَّعَ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ جدا جدا ہونا۔

القضوع والقضاع والقضیع: ہیبت کا دور

القض والقضیع والأقض جس میں نکری ہو اور کہا جاتا ہے "جاء القوم قضهم وقضم وقضهم" یعنی سب آئے۔ قض کا نصب مصدر یا حال کی بنا پر اور رفع تاکید کی وجہ سے کلمہ کے قائم مقام ہو کر۔

القضۃ: قض کا اسم مرۃ۔ قضاض کا واحد بمعنی نہ بہتہ تیز۔ چھوٹا ٹیلہ۔ نکری۔ چیز کا بقیہ۔ دھاگے کی چھوٹی اٹی۔ أرض قضۃ: نکری والی زمین۔

القضۃ: جنس۔ چھوٹی نکریاں۔ ج قضات۔
القضۃ: دو ٹیڑگی۔

القضۃ والقضۃ: عیب۔
قضی یقضی قضاً الشئ: کھانا۔
السقاء: خشک کا خراب ہونا۔ بدبودار ہونا۔

العین: آنکھ کا سرخ ہونا۔ **الغوب** او **الجبیل**: کپڑے یا رستی کا بوسیدہ ہونا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ **قضاً وقضاء**: حسبتہ: تباہ ہونا۔ **أفضأه**: کھانا۔ کہا جاتا ہے **تقضاً من فلان أن یزوجه** یعنی اس کے سب کو ذلیل سمجھا اور نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔

القضاء والقضاء: عیب۔ نسا۔ عار۔
القضی: خراب بدبودار۔ کہا جاتا ہے **سقاء قضی وقزۃ قضینتہ**: خراب اور بدبودار خشک۔
قضب (ض) قضباً الشئ: کاٹنا۔ **الزجل**: کسی کو شاخ سے مارنا۔ **الناقۃ**: اونٹنی پر سدھانے سے قبل سوار ہونا۔

قضب الشئ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
الکرم: موسم بہار میں انگور کی شامیں تراشا۔
وققضب شعاغ الشمس: آفتاب کی کرن کا پھیلنا وققضب الشئ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔

أقضبت الأرض: زمین کا سبزہ دار ہونا۔ ساگ پات اگانا۔

إنقضب: کٹنا۔ **الکوکب من مکابہ**: ستارے کا پانی جگہ سے ہٹنا۔

إنقضب الشئ: کاٹنا۔ **الکلام**: نبی البدیہ کتا۔ **الناقۃ**: اونٹنی پر سدھانے

قص (ان) قضاً الشئ: سوراخ کرنا۔ کوٹنا۔
الوئذ: کھوٹی اکھیرنا۔ **الحوائط**: دیوار کو زور سے ڈھانا۔ **علیہم الخیل**: کسی جماعت پر گھوڑوں کو بھیجنا اور متفرق کرنا۔
الطعام: کھانے میں کوئی خشک چیز مثلاً کڑ یا شکر والا۔

قض (ض) قضیضاً السنیو والوئذ: چڑچڑانا۔
قض (ض) قضضاً المکان او الطعام: جگہ یا کھانے کا نکری دار ہونا۔ **علیہ المصضع**: خرابگاہ کا سخت ہونا۔ کہا جاتا ہے **قض الزجل**: جبکہ نیند آئے اور آسودگی حاصل نہ ہو۔

قضضاً المکان او الطعام: بمعنی قض۔
المصضع: خرابگاہ کا سخت ہونا۔ کہا جاتا ہے **أقض علیہ المصضع**: یعنی خرابگاہ خاک آلود اور سخت ہوگئی۔ **وأقض علیہم**: یعنی اس پر غم نازل ہوا۔ **اللہ مصضعه**: خرابگاہ کو کھردرا کرنا۔ **الزجل**: باریک امور کے دورے ہونا۔

إنقض: ٹوٹنا۔ **الجذاز**: دیوار کا پھینٹنا۔
کرتا۔ **إنقضت الخیل علی القوم**: گھوڑوں کا منتشر ہونا۔ کہا جاتا ہے **قضضنا علیہم الخیل** **فإنقضت علیہم** ہم نے ان پر گھوڑے دوڑائے پس وہ ان پر ٹوٹ پڑے (۔) **وتقضض الظانز**: پرندہ کا نیچے اترنا اور کہا جاتا ہے **تقضضی تقضیاً**۔ دوسرے ضد کو یا سے بدل کر۔ **جیسا تظنن سے تظنی** اور بعضوں نے کہا ہے کہ **قض** سے فعل کے وزن پر یا سے بدل کر ہی استعمال ہوتا ہے۔

إنقاض الجذاز: دیوار کا پھینٹنا۔ گرتا۔
استقضض المصضع: خرابگاہ کو کھردرا پانا۔
الطعام او المکان: نکری دار ہونا۔
استقضض الهم: غم کا زوال چاہنا۔
أقضض: نکارت نازل کرنا۔

القض والقضض: مہمور۔ نکری۔
القضض: خاک جو چھوٹے پر پڑ جائے۔

اور مروڑ۔

القَصَاعُ وَالْقَصَاعَةُ - آٹے کی گرد و دیواری کی
بڑاں جو چھڑ کر گئے۔ الْقَصَاعَةُ: تیندوا۔

القَصْعَمُ: بڑھا جس کے دانت گر گئے ہوں۔

پوپلا۔

قُضِفَ (ک) قُضِفًا وَقُضِفًا وَقُضَافَةٌ خِيفٌ
ولاغروہا۔ صفت قُضِيفٌ ج قُضَافٌ وَقُضِفَانٌ
وَقُضَفَاءٌ۔

انْقَضَفَ: ٹوٹا۔

القَضْفُ: پتلے پتھر۔

القَضْفَةُ: ٹیلہ جو ایک پتھر کا معلوم ہو۔ زمین کا
ٹکڑا جو ابھرا ہوا ہو اور کچھ لمبا ہو۔ ایک پرندہ کا
نام۔ ج قَضْفٌ وَقُضَافٌ وَقُضِفَانٌ وَقُضِفَانٌ۔
القَضْفَةُ: ریت کا ٹکڑا جو بڑے حصے سے
علیحدہ ہو گیا ہو۔

القَضِيفَةُ: مِنَ النِّسَاءِ: کم گوشت زلی تیلی
عورت۔

قُضِفَ قَضْفُ الْعَظْمِ: بڑی کا ٹوٹنے
کے وقت چھٹنا۔ الْأَسَدُ فَرِيَسَةٌ: شیر کا
اپنے شکار کو توڑنا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

تَقَضَّقَضَ: ٹوٹنا۔ جدا جدا ہونا۔

القَضْقَاضُ وَالْقَضْقَاضُ وَالْقَضَائِقُضُ:
شیر۔

القَضْقَاضُ: ہموار زمین۔

القَضْلَامُ: اونٹ وغیرہ جو ہریز کو کاکٹ کھائے
اور توڑے۔

قَضَمَ (س) وَقَضَمَ (ض) قَضَمًا الشَّيْءُ:
دانت کے اطراف سے کاٹنا اور کھانا۔ کہا جاتا ہے
”هُوَ يَقْضِمُ الدُّنْيَا قَضْمًا“ جبکہ بے رغبتی
کرے اور معمولی پر راضی ہو جائے۔

قَضَمَتْ (س) قَضَمًا البَسْتُ: دانت کے
اطراف کا ٹوٹنا۔ قَضَمَ الزُّجْلُ: دانت کے ٹوٹنے

ہوئے اطراف والا ہونا۔ قَضَمَ الشَّيْفُ: تلوار
پرانی ہونے کی وجہ سے دھار خراب ہونا۔

قَاضِمٌ مَقَاضِمَةٌ: تھوڑا تھوڑا بیچنا یا خریدنا۔

أَقْضَمَ الدَّائَةَ: جانور کو جو چاچھا رہا
وَأَسْتَقْضَمَ الْقَوْمَ: قحط میں تھوڑا غلہ لیا۔

القَضِيمُ مِنَ الْأَسْنَانِ: اطراف گرے ہوئے

دانت۔ القَضِيمُ مِنَ الرِّجَالِ: جس کے دانت کے

اطراف ٹوٹے ہوئے ہوں۔ القَضِيمُ مِنَ
الشَّيْءِ: پرانی ہونے کی وجہ سے خراب دھار
والی تلوار۔

الْقَضِيمُ: جس کے دانت کے اطراف ٹوٹے
ہوئے ہوں۔ مَوْنُثٌ قَضَمَاءُ ج قَضِيمٌ۔

القَضِيمُ: ہم۔ تلوار۔

القَضِيمَةُ وَالْقَضَامُ وَالْمَقْضَمُ: جو دانت کے
اطراف سے کاٹا جائے۔ کہا جاتا ہے ”مَا ذُقْتُ
قَضِيمَةً وَقَضَامًا وَمَقْضَمًا“ یعنی میں نے کچھ
نہیں چکھا۔

القَضِيمُ: جس کو دانت کے اطراف سے کاٹا
جائے۔ ٹوٹی ہوئی دھار کی تلوار۔ گھڑی۔ نامہ
القَضِيمَةُ: چیزے کا فرش جو بحرم کے
بیچے بچھا دیتے تھے تاکہ خون سے زمین خراب نہ

ہو۔ چمڑا۔ سفید چمڑا جس پر لکھا کرتے تھے۔ جانوروں
کے لیے جو۔ چاندی ج قَضَمٌ وَقَضِمٌ وَأَقْضَمَةٌ۔

القَضَامُ: کھجور کا لمبا درخت کہ اس کے پھل
خشک ہو گئے ہوں۔ ج قَضَامِيضٌ۔

قَضَى يَقْضِي قَضَاءَ الشَّيْءِ: مضبوطی سے بنانا
حَاجَتُهُ: پوری کرنا اور فارغ ہونا

وَظَرُهُ: مُرَادٌ كُوبِ بَيْتِنَا: غیر تہ تمام آنسو ہا
وینا۔ الدَّيْنُ: قرض ادا کرنا۔

الْمُصَلَاةُ: نماز ادا کرنا۔ الْأَمْرُ الْيَتِي: پہچانا
العَهْدُ: نافر کرنا۔ عَلَيْهِ عَهْدًا:

وَعِدْتُ كَرْنَا۔ قَضَى الزُّجْلَ وَقَضَى نَجْبَهُ
وَقَضَى أَجَلَهُ وَقَضَى عَلَيْهِ: مرنا۔ اور کہا جاتا

ہے صَرَبَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ یعنی مار ڈالا۔ وَقَضَى مِنْهُ
العَجَبُ بَسْتُ زِيَادَةً تَعِبَ كِيَا۔ وَلَا أَقْضِي مِنْهُ

العَجَبُ بَسْتُ تَعِبَ كِيَا حَتَّى أَدْرَأَ كَرْنَا مَكْنُ نَحْمِ كَرْنَا
محلہ بہت عظیم الشان ہے۔

قَضَى يَقْضِي قَضَاءً وَقَضِيًا وَقَضِيَةً بَيْنَ
الْحَضْمَيْنِ: فیصلہ کرنا۔ الْأَمْرُ لَهُ أَوْ

عَلَيْهِ: موافق یا مخالف فیصلہ کرنا۔ الشَّيْءُ:
جنا۔ بیان کرنا۔

قَضَى تَقْضِيَةً وَقَضَاءً وَظَرُهُ: حاجت پوری
کرنا۔ مُرَادٌ بَرَلَانَا: الْأَمْرُ: محلہ کو نافر کرنا

فَلَانًا: قاضی بنانا۔ تَقْضِيَةً: مرنا۔

قَاضًا مَقَاضَةً۔ فَلَانًا إِلَى الْحَاكِمِ: فیصلہ

کے لئے لے جانا۔ هُوَ عَلَى مَالٍ: صلح کرنا۔

تَقَضَّى: التَّجَارِي: بازار کا ٹوٹ پڑنا۔ اس کی اصل
تَقَضَّضٌ ہے ضاد آخر کو تخفیف کے لیے یا سے
بدل دیا گیا ہے (۔ وَأَقْضَى الشَّيْءُ: قضا

ہونا۔ ختم ہونا۔

تَقَاضَى إِلَى الْحَاكِمِ: دونوں کا حاکم کے پاس
فیصلہ کیلئے جانا۔ تَقَاضَاهُ الدَّيْنُ وَغَيْرُهُ

وبالدَّيْنِ: قرض کا قاضی کرنا۔

أَقْضَى إِقْضَاءَ الْحَالِ كَذَا: چاہنا۔ لازم
کرنا۔ إِقْضَاءُ الدَّيْنِ وَغَيْرُهُ: قاضی کرنا۔ طلب

کرنا۔ وَأَقْضَى الْأَمْرَ الْوَجُوبَ: صیغہ امر کا
وجوب پر دلالت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”أَفْعَلُ مَا

يَقْضِيهِ كَوْمَكُ“ وہ کرو جو تمہارے کرم کا
قاضی ہو۔

اسْتَقْضَى اسْتِقْضَاءً فَلَانًا الدَّيْنِ: قرض
ادا کرنے کا مطالبہ کرنا۔ اسْتَقْضَى السُّلْطَانُ

فَلَانًا عَلَيْنَا: قاضی بنانا۔ هُوَ: فیصلہ کیلئے
طلب کرنا۔ اسْتَقْضَى فَلَانًا: قاضی بنایا جانا۔

القَضَى وَالْقَضَاءُ: حکم۔ ادا۔ ج أَقْضِيَةً
مصباح میں ہے کہ علماء قضا کا استعمال اس عبارت

کیلئے کرتے ہیں جو شرعی حیثیت سے معین وقت
کے علاوہ میں ادا کی جائے۔ اور ادا وہ ہے جو وقت

معین میں کی جائے اور یہ وضع لغوی کے خلاف
ہے لیکن دونوں وقتوں میں تمیز کے لیے اصطلاح

ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ قضا مُرَادٌ ہے عالم
عقل میں تمام موجودات کے وجود سے جو مجتمع

بطریق ابداع کے ہو اور قدر مُرَادٌ ہے وجود
خارجی سے جو مفصل ایک کے بعد ایک ہو۔

القَضَى: موت۔ کہا جاتا ہے ”زَجُلٌ قَضَى“
مرد جلد فیصلہ کرنے والا۔

القَضِيَّةُ: ہم۔ قَضَى كَالْمِمْ: عند
المنطقين: وہ قول جس کے کہنے والے کو چھایا

مجھوٹا کہا جاسکے۔ ج قَضَايَا۔

القَضِيَّةُ: ایک ترش قسم کی گھاس ج قَضَى
وقضات وقضون۔

القَاضِي: فا۔ حاکم شرعی۔ ج قَضَاةُ۔ قَاضِي
الْقَضَاةِ: قاضیوں کا رئیس۔ جِيفُ جِشَسُ سَمٌّ

فاض : زہر قابل۔
 القاضية : قاضی کا صفت۔ موت۔ کہا جاتا ہے
 "أَتَتْ عَلَيْهِ الْقَاضِيَةَ" اسے موت آئی۔
 القضاء : اسم مبالغہ۔ مضبوط زرہ۔
 قَطْلَان (ن) قَطْلَانُ وَقَطْلَانُ القلم ونحوہ : قلم پر
 قد لگانا۔ السِّطْرَانُ حَافِزُ الدَّيَّةِ : سلوتری
 کا چھاپیہ کہ کھر تراشا۔
 قَطْلَان (ض) قَطْلَانُ وَقَطْلَانُ وَقَطْلَانُ السِّغْرِ : بھاڑ
 گراں ہونا۔ صفت قَطْلَانُ وَقَطْلَانُ قَاطِطُ
 قَطْوٍ وَقَطْلَانُ (س) قَطْلَانُ وَقَطْلَانُ الشَّعْرِ :
 بال چھوٹے اور ٹھنکریالے ہونا۔ صفت قَطْوٍ
 قَطْلَانُ۔
 قَطْلَانُ الخِرَاطِ الخَشْبِيَّةِ : خراوی کا کڑی کو
 تراشا اور ہموار کرنا۔
 اِقْطَعُوا اِقْطَعُوا الشَّيْءَ : منقطع ہونا۔
 قَطْلَانُ : حسب کے معنی میں آتا ہے جیسے قَطْلِي
 وَقَطْلَكَ وَقَطْلَ زَيْدٍ دِزْهَمٌ بمعنی خنسی
 وَخَنَبِكُ وَخَنَبُ زَيْدٍ دِزْهَمٌ۔ فرق یہ ہے
 کہ قَطْلَانُ ہے اور حسب معرب۔ اور اسم فعل
 ہو کر بمعنی یکفہ بھی مستعمل ہے۔ اس صورت
 میں نون و قایہ کے ساتھ بناء علی السكون کی
 حفاظت کیلئے قتلنی کہا جاتا ہے۔ اگر تفلیل کا ارادہ
 ہو تو ساکن کرویتے ہیں۔ جیسے مَا عَيْنِي الْاَهْدَا
 قَطْلَانُ اور اگر ہمزہ وصل کے ساتھ ملے تو آخر کو
 کسرہ دے دیتے ہیں۔ جیسے مَا عَلِمْتُ الْاَهْدَا
 قَطْلَانُ الدهر اور کبھی تحسین لفظ کیلئے اس کے
 شروع میں فاجہ داخل کرتے ہیں۔ جیسے "زَايِنَه
 مَرَّةً قَطْلَانُ" یعنی میں نے اس کو صرف ایک ہی
 مرتبہ دیکھا۔
 قَطْلَانُ : حرف زبان ہے اور استعراق ماضی کے
 لیے آتا ہے اور نفی کے ساتھ مختص ہے جیسے مَا
 فَعَلْتُ هَذَا قَطْلَانُ اور کبھی قَطْلَانُ اور قَطْلَانُ بھی کہا جاتا
 ہے۔
 القَطْلَانُ : علی۔ ج قَطْلَانُ وَقَطْلَانَةُ : قَطْلَانُ الزِّيَادُ :
 دیکھئے لفظ الزِّيَادُ واحد قَطْلَانَةُ القَطْلَانُ : حصہ۔ رات
 کا ایک حصہ۔ حساب کار جبر۔ یک۔ چٹھی۔ ج
 قَطْلَانُ۔
 رَجُلٌ قَطْلَانٌ وَقَطْلَانٌ : چھوٹے ٹھنکریالے بال

والا۔ ج قَطْلُونٌ وَقَطْلَانٌ وَقَطْلَانٌ وَقَطْلَانٌ
 وَاِمْرَاَةٌ قَطْلَانَةٌ وَقَطْلَانٌ : ٹھنکریالے بال والی
 عورت۔
 قَطْلَانُ اسم فعل بمعنی حسب۔
 القَطْلَانُ : چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے والا۔
 القَطْلَانُ : بالوں کا ٹھنکریالاہن۔ سم کا گھیرا۔ پہاڑ کا
 کنارہ۔ نمونہ کہ جس کو دیکھ کر کوئی چیز قطع کریں
 ج قَطْلَانَةٌ (ض) والقَطْلَانَةُ : عار کا بالائی کنارہ ج
 قَطْلَانُ اور کہا جاتا ہے "جَاءَتْ بِهَا الخَيْلُ
 قَطْلَانٌ" گھوڑے گروہ گروہ آئے۔
 القَطْلَانُ : اسم مبالغہ۔ خراو کرنے والا۔ میغر
 قَاطِطٌ وَقَاطِطٌ وَقَطْلَانٌ : گراں بھاڑ۔
 المَقْطَلُ المَقْطَلَةُ : قَطْلَانُ۔
 المَقْطَلُ : گھوڑے کے پلو کی بڑی کے سرے کا
 ختمنا۔
 قَطْلَانُ (ض) قَطْلَانُ الشَّيْءِ : کاٹنا۔ جمع کرنا۔
 الشَّرَابُ : طوئی کرنا۔ الإِنَاءُ : برتن
 بھرتا۔
 الرَّجُلُ : غضبناک کرنا۔ الخَوَالِقُ :
 گون کے دونوں گوشوں کو ملانا۔ القَوْمُ : جمع
 ہونا۔
 قَطْلَانُ (ض) قَطْلَانُ وَقَطْلَانُ وَقَطْلَانُ الرَّجُلِ :
 ترش روئی کرنا۔ صفت قَطْلَانُ وَقَطْلَانُ
 الشَّرَابِ : طوئی کرنا۔
 أَقْطَبُ الشَّرَابِ : طوئی کرنا۔ القَوْمُ :
 جمع ہونا۔
 القَطْبُ والقَطْبُ والقَطْبُ والقَطْبُ ج
 أَقْطَابُ : القَطْبَانَةُ ج قَطْبُ : چکی کی کیل جس پر
 چکی گھومتی ہے۔
 القَطْبُ : فردین اور جدی کے درمیان ایک
 ستارہ کا نام جس سے قیبلہ کی تعیین کرتے ہیں۔
 مدار کار۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قَطْبُ ذَلِكَ الْأَمْرِ" و
 صَاحِبُ البَيْتِ قَطْبُ رَحْمَى العَزَبِ سردار
 قوم۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ قَطْبُ نَيْبِي فَلَانٌ" ج
 أَقْطَابُ وَقَطْلَانُ وَقَطْلَانَةُ : عند
 الجهر المبین : زمین کے محور کا کنارہ اور وہ دو ہیں
 قَطْبُ شَمَالِيٌّ وَقَطْبُ جَنُوبِيٌّ۔
 القَطْبُ : کسی چیز کو لینے کے بعد باقی کو انکل سے

بغیر وزن کے لیا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ قَطْبَانِ" اس
 نے اسے انکل سے بغیر وزن کے لے لیا۔
 القَطْبَانَةُ : چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے۔
 ایک قسم کی گھاس۔ القَطْبَانَةُ عند الجهر المبین :
 زمین کے محور کا کنارہ۔
 القَطْبَانِي : ایک قسم کی گھاس جس سے رستی
 بنائی جاتی ہے۔
 القَطْبَانُ : ایک قسم کی گھاس۔
 القَطْبَانُ : طوئی۔ گریبان کے لٹنے کی جگہ۔
 القَطْبَانَةُ : گوشت کا ٹکڑا۔
 القَطْبَانُ والقَطْبَانُ : ملایا ہوا۔ القَطْبَانُ
 والقَطْبَانَةُ : اُونٹنی اور برکی کا دودھ ملایا ہوا۔
 القَطْبَانُ والقَطْبَانُ : ترش رو۔ شیر۔ کہا جاتا
 ہے "جَاءَتْ وَاقْبَانَةٌ وَقَطْبَانُهُمْ" یعنی سب
 آئے اور قاطبہ حالت کی بنا پر مضبوط ہے۔
 قَطْلَانُ (ن) قَطْلَانُ : کشتی کے رے کو مضبوط
 بنانا۔ کتوئیں سے کشتی کی رستی سے پانی نکالنا۔
 القَطْلَانُ والقَطْلَانُ : کشتی کی رستی۔
 قَطْرَةٌ (ن) قَطْرَةٌ : سخت بچھاڑنا۔ قطر البعير :
 اُونٹ پر قطرانا ملنا۔ القَوْبُ : کپڑے کو
 سینا۔ اور کہا جاتا ہے "مَا أَذْرِي مِنَ قَطْرٍ فَأَوْعِنُ
 قَطْرِيهِ" مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کون لے گیا
 (اور یہ نفی کے ساتھ خاص ہے) (۔۔۔)
 قَطْرًا الرَّجُلُ : داند وغیرہ کو وزن سے لینا اور
 باقی کو اسی حساب سے اندازے سے بغیر وزن
 کے لینا (قَطْرًا فِي الْأَرْضِ : جانا)
 قَطْرًا وَقَطْرًا وَقَطْرًا : الماء پانی کا بہنا
 اور قطرہ قطرہ نپٹنا۔ الصَّمْعُ مِنَ
 الشَّجَرَةِ : درخت سے گوند لگانا۔
 قَطْرَانُ (ن) قَطْرَانُ وَقَطْرَانُ وَقَطْرَانُ الإِبِلِ : اُونٹوں
 کو ایک قطار میں کرنا۔ کہا جاتا ہے "قَطْرَانُ البَعِيرِ
 إِلَى البَعِيرِ" ایک اُونٹ کو دوسرے اُونٹ کے
 قریب کرنا۔ قَطْرَانُ وَقَطْرَانُ الماء : ایک ایک قطرہ
 نپٹانا۔ قَطْرَانُ الدَّوَاءِ : کشید کرنا۔ قَطْرَانُ القَوْبِ :
 کپڑے کو عود کی دھوئی دینا۔ أَقْطَرُ النَّبْتُ :
 نباتات کی خشکی شروع ہونا۔ الشَّيْءُ : کچھنے
 کا وقت قریب ہونا اور کہا جاتا ہے "قَطْرَةً فَا
 قَطْرَةً" تیز ہوا اور ایک جانب پر گرایا۔ وَأَقْطَرُ

الصَّاءِ پانی کا برسا۔

تَقَطَّرَ: عموماً کی دھونی دیا ہوا ہوتا۔

الصَّاءِ: پانی کا قطرہ قطرہ برسا۔ الزَّجْلُ:۔

اپنے آپ کو اوپر سے پھینک دینا۔ گرتا۔

عَنْ كَذَا: پیچھے رہنا۔ بہ: ایک جانب گرا دینا۔

تَقَطَّرَ الْقَوْمُ: گروہ در گروہ پے در پے آتا۔

الصَّاءِ: پانی کا برسا اور ایک ایک قطرہ گرتا

وَتَقَطَّرَا: کناروں کا مقابل ہونا۔

اِقْطَرُوا اِقْطَارًا: خشک ہونے لگنا۔

النَّاقَةُ: اونٹنی کا دم اور سر اٹھانا۔ وَاِقْطَارًا

الزَّجْلُ: غھبناک ہونا۔

اسْتَقَطَّرَ الصَّاءَ وَغَيْرَهُ: پکانا۔ کشید کرنا۔

بَارَشَ طَلِبًا كَرْنَا: بارش طلب کرنا۔

الْقَطْرُ مِمَّ: بارش۔ کسی بننے والی چیز کا قطرہ ج

قَطَارًا۔

الْقَطْرُ: تابنا۔ تاجے کی ایک قسم۔ بگھلا ہوا تابنا۔

ایک قسم کی چادر۔

الْقَطْرُ: اِقْلِيمٌ: گوشہ۔ جانب ج اَقْطَارُ اَقْطَارِ

الدُّنْيَا: دنیا کی چاروں جہتیں۔ وَقَطْرُ الدَّيَاةِ فِي

الهِندِيَّةِ: وہ خط مستقیم جو دائرہ کو تقسیم کر دے

اور مرکز سے گزر کر محیط پر ختم ہو۔ وَقَطْرُ

الْمُرْبَعِ وَالْمُسْتَقْبِلِ وَالْمُعْتَمِدِ: اس خط

مستقیم کو کہتے ہیں جو دو مقابل زوایے کے اندر

ہو۔

الْقَطْرُ وَالْقَطْرُ: عموماً۔ اگر۔

الْقَطْرُ: غلے وغیرہ کو وزن سے لینا اور جب

تھوڑا سا باقی رہ جائے تو بقیہ کو اسی حساب سے بلا

وزن کے اٹکل سے لینا۔

الْقَطْرَةُ: قطرہ کا اسم مرہ۔ نَقَطَرَ قَطْرَاتٍ كَمَا

جَاتَا بِهٖ "وَمَا اللَّهُ بِقَطْرَةٍ" اللہ اس پر مسمیت

نازل کرے۔

الْقَطْرَةُ وَالْقَطْرَةُ: معمولی چیز۔ خفیس چیز۔

الْقَطْرَانُ وَالْقَطْرَانُ وَالْقَطْرَانُ: کوتاہ کی

ماندا ایک چیز جو بعض درختوں سے بنایا جاتا ہے۔

الْقَطَارُ وَالْقَطْرُ وَالْمِقْطَارُ: بہت برسنے

والا بادل۔ الْقَطَارُ: زہر جو کثرت کی وجہ سے

پکے۔

الْقَطَارَةُ: قطرہ۔ تھوڑا پانی۔

الْقَطَارُ: مِنَ الْإِبِلِ: اونٹوں کی قطار ج قَطْرُ

وَقَطْرَاتٍ: ٹرین۔

الْقَطَارَةُ: اونٹوں کو ایک قطار میں ایک کے

پیچھے ایک باندھنا۔ کما جاتا ہے "مَرَّتْ بِهٖ قَطَارَةٌ

جَمَالٌ" اس کے اوپر اونٹوں کی قطار گزری۔

الْقَطَارِيُّ وَالْقَطَارِيَّةُ: سانپ۔

الْقَاطِرُ: فائیکے والا گوند۔ دم الاخوین۔

الْقَاطِرَةُ: قاطر کا مونسٹ۔ انجن۔

الْمِقْطَرُ وَالْمِقْطَرَةُ: دھونی۔ یعنی اَلْمِقْطَرُ ج

مِقْطَرٍ: مِقْطَرَةُ: قیدیوں کے بیروں ڈالنے کی

کڑی۔

الْمِقْطَارَةُ: غلے وغیرہ کو وزن سے لینا۔ اور جب

تھوڑا سا باقی رہ جائے تو بقیہ کو اسی حساب سے بلا

وزن اٹکل سے لینا اور کما جاتا ہے "اَكْرَاهُ

مِقْطَارَةً" یعنی آمدورفت کے لیے کرا لیا گیا۔

الْمِقْطَرُ: مقہ۔ قطران ملا ہوا۔ اَرْضٌ

مَقْطَرَةٌ: بارش شدہ زمین۔

قَطْرَبٌ جلدی کرنا۔ ہ: پچھاڑنا۔

تَقَطَّرَبٌ: سر کو حرکت دینا۔

الْقَطْرَبُ: چور۔ چوہا۔ بال گرا ہوا۔ بھیرا۔ بھوت۔

چھوٹے جن۔ ایک کپڑا جو ہر وقت حرکت کرتا رہتا

ہے۔ جال۔ بزدل۔ سفید۔ پچھاڑا ہوا۔ مالی خوبیا کی

ایک قسم۔ چھوٹے کتے۔ ایک خاردار پودہ ہے کہ

گزرنے والے سے اٹھتا ہے۔

الْقَطْرَبِيُّوس: سخت ڈنک مارنے والا بچھو۔ تیز

رقار مضبوط اونٹنی۔

قَطْرَبٌ التَّبَعِيُّ: اونٹ پر قطران مانا۔

قَطَعَ (ف) قَطْعًا وَمَقْطَعًا وَقَطْعًا الشَّيْءُ:

کٹانا۔ جدا کرنا۔ ہ عَنْ حَقِيْبِهِ: منع کر دینا۔

قَطَعَ الصَّلَاةَ: باطل کرنا۔ فِي الْقَوْلِ:

یقین کرنا۔ الطَّرِيْقُ عَلَى السَّائِلِيْنَ: چلنے

والوں کو راستے سے روکنا اور خوفناک بنانا۔

قَطَعَ (ف) قَطْعًا وَقَطْعًا النَّهْرَ: غمر عبور کرنا

۔ ہ بِالْقَطِيْعِ اَوِ السُّوْطِ: چھٹی یا کوڑے سے

مارنا۔ ہ بِالْحَبِيْبَةِ: خاموش کر دینا۔ لا جواب

کر دینا۔ لِسَانُهُ: احسان کر کے زبان بندی

کرنا۔

قَطَعَ (ف) قَطْعًا وَقَطِيْعَةً رَحْمَةً: رشتہ

داروں سے جدائی اختیار کرنا (قَطْعَةً

الصَّدِيْقِ: دوست کو چھوڑ دینا۔

قَطَعَ (ف) قَطْعًا الْحَوْضَ: حوض کو آدھے

تک بھر کر پانی روک دینا۔ فَلَانٌ الْحَبْلُ

اَوْ بِالْحَبْلِ: اپنے آپ رستی سے گلا گھونٹنا

۔ عَنَّقَ ذَاتِيْهٖ: بیچنا۔ لَهٗ قَطْعَةٌ مِنَ

الصَّالِ: مال کو دینے کیلئے اس کا ایک حصہ جدا کرنا

(قَطِيْعَةً) السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ: مالک کا

اپنے غلام پر ٹیکس مقرر کرنا۔ کما جاتا ہے

"قَطَعْنِي النَّوْبَ" کپڑا میرے قد کیلئے کافی ہے۔

قَطَعَ (ف) قَطُوْعًا وَقَطَاعًا وَمَاءَ

الْبُسْرِ: کتوئیں کا پانی ختم ہونا یا کم ہونا۔ قَطَعَتِ

الطَّيْرُ: پرندوں کا ٹھنڈے ممالک سے گرم

ممالک کی طرف جانا۔ صفت قَوَّاطِعِ:

قَطَعَ (ك) قَطَاعَةً: کلام پر قادر نہ ہونا۔

لِسَانُهُ: زبان کی تیزی کا جاتا رہنا۔

قَطَعْتُ (س) قَطْعًا وَقَطْعًا وَقَطْعًا

يَذُوهُ: مرض کی وجہ سے یا کٹنے سے جدا ہونا۔

قَطَعَ النَّفْسِ: سانس کٹ جانا۔

الزَّجْلُ: عاجز ہونا یا ناامید ہونا۔ بہ: آرزو

پوری ہونے سے پہلے روکا جانا۔ صفت مَقْطُوْعٌ

بہ۔

قَطَعَ الشَّيْءُ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الشَّعْرُ: شعری تعظیم کرنا۔ الخَمْرُ

بِالصَّاءِ: شراب میں پانی ملانا۔ الْفَرْسُ

الْحَبِيْلُ: گھوڑے کا سبت کرنا۔ اللُّهُ

عَلَيْهِ الْعَذَابُ: گونا گوں عذاب دینا۔

الْفَرْسُ الْجَزِيُّ: نشاط کی وجہ سے قسم قسم کی

چال چلنا اور کما جاتا ہے "قَطَعْنِي النَّوْبَ" کپڑا

میرے قد کیلئے کافی ہے و "هَذَا النَّوْبُ

يُقَطِّعُكَ فَمِنْصًا" یہ کپڑا تمہارے کرتے کے

لیے کافی ہے۔ کما جاتا ہے "قَطَعَ فِي نَبْطِيْهِ" اس

کے بیٹ میں مروڑ ہوا۔

قَاطِعَةٌ مَقْاطِعَةٌ: قطع تعاقب کرنا۔ قَاطِعٌ

الْأَجِيْزُ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجْرِ وَالْعَمَلِ:

اَجْرَتِ پر کام طے کرنا۔ فَلَانٌ فَلَانًا

بِسَيْفِيْهِمَا: ایک دوسرے کو تلوار دکھانا کہ

کس کی تلوار عمدہ ہے وفاقظمو لحوئمهم
بالسيف: ایک دوسرے کے گوشت کا کٹنا۔

أَفْطَعُ الرَّجُلُ: لاجواب ہونا۔ عَنْ

أَهْلِهِ: اپنے اہل سے جدا ہونا۔ مَا بَالُ الْبُتْرِ: کنوئیں کا پانی ختم ہونا۔ فَلَانًا: نہر عبور

کرنا۔ هُ الْحَطَبُ: کڑی کاٹنے کی

اجازت دینا۔ هُ بِالْحِجَّةِ: دلیل سے

خاموش کر دینا۔ الْأَمِيثُ الْجُنْدُ الْبَلَدُ: جاگیر دینا۔ أَفْطَعُكَ الشَّيْءُ: منقطع ہونا۔

أَفْطَعَتِ السَّمَاءُ بِمَوْجِعِ كَذَا: بارش رک

جانا۔ أَفْطَعُ الْقَوْمُ: قوم سے بارش کا منقطع ہونا

الذَّجَاجَةُ: مرغی کا انڈے دینے سے

رکنا۔ كَرْكُ هُوَا اور کہا جاتا ہے "أَفْطَعْنِي

النَّوْبُ" کپڑا میرے قامت کے لیے کافی ہے۔

تَقَطَّعَ: کٹنا۔ کھوئے کھوئے ہونا۔ تَقَطَّعَ

الظِّلُّ: سنا۔ کم ہونا۔ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ:

اپنے درمیان معاملہ میں تفریق کر لینا۔ کہا جاتا ہے

تَقَطَّعْتَ عَلَيَّ هَذَا الْجَوَادِ أَغْتَابِي الْخَيْلِ:

یعنی اس گھوڑے سے گھوڑوں کی گردیں نہیں

ملیں۔

انْقَطَعَ: کٹنا۔ وقت ختم ہونا۔ کہا جاتا ہے

"انْقَطَعَ الْحَرْأُ وَالنَّوْدُ" گرمی یا سردی ختم

ہوگئی۔ انْقَطَعَ السَّيْفُ: تلوار کا ٹوٹنا۔

مَا بَالُ الْبُتْرِ: کنوئیں کا پانی ختم ہونا۔

الغَيْثُ: بارش کا کٹنا۔ الْكَلَامُ: کلام کا

رک جانا۔ التَّهْمُ: نہر کا خشک ہونا یا روک

دیا جانا۔ اللَّيْنُ: دودھ میں پانی کا حصہ خشک

ہو جانا۔ لِسَانُهُ ذُبَانٌ كِي تَمْرِي كَا جَا تَا رَمْنَا

إِلَى فَلَانٍ: خاص تعلق رکھنا۔

انْقَطَعَ بِالسَّافِرِ: سواری کے جانور کا ہلاک

ہونا یا زور ادا کا ختم ہونا۔ صَفْتٌ مَنْقَطَعٌ بِهِ:

تَقَطَّعًا: ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا۔

نَفَاطِعُ الشَّيْءِ: جدا جدا ہونا۔

انْقَطَعَ مَا لِفَلَانٍ: اپنے لیے لینا۔ مِنْ

الْمَالِ قِطْعَةً: کچھ لینا۔ مَا فِي الْإِنَاءِ:

بِرْتَنِ كَابٍ كَمَحٍ فِي لَيْتَا:

إِنْ تَقَطَّعَهُ بَلَدًا أَوْ تَوْبًا: جاگیر دینے کو کستا۔ کپڑا

قطع کرنے کو کستا۔

أَفْطَوُطَعَتِ الطَّيْرُ: پرندوں کا سرد ممالک سے

گرم ممالک کی طرف جانا۔

القطع: مہ۔ کہا جاتا ہے "الْأَمْرُ أَوْ قِطْعًا"

یعنی امر یقیناً واقع ہے۔ "وَأَنَّى أَفْطَعُ بِذَلِكَ

قِطْعًا" میں اس کا یقین رکھتا ہوں۔

القطع: درخت کا کاٹنا ہوا کٹرا۔ نیزے کا چوڑا

اور چھوٹا پھل ج قطع قطع و قطع۔ سوار

کے نیچے بچھانے کا کپڑا۔ ایک قسم کا منقش کپڑا،

رات کا ایک کٹرا۔ ج قطع قطع و قطع۔ کہا جاتا

ہے "نُوبٌ قِطْعٌ وَأَفْطَاعٌ" کٹا ہوا کپڑا۔

القطع: پیٹ کا درد اور مروڑ۔ سانس پھولنا

والقطع: گرمی کی وجہ سے کنوئیں کے پانی

کا خشک ہونا۔

القطع هي الفرس: گھوڑے کی بعض رگوں کا

کٹنا۔

القطع والقطع: رشتہ داروں سے قطع تعلق

کرنے والا۔

القطع: جس کی آواز بند ہو جائے۔

القطع: چیز کا حصہ۔ ج قطع. والقطع من

الشعر: دوس یا سات یا اس سے کم اشعار کی نظم۔

القطع: زمین کا کٹرا۔ جو کسی کو دینے کے لئے

جدا کیا جائے۔ کاٹا ہوا کٹرا۔ سفید آنا۔ سفید آنے کی

بھوسی۔ کتاب کی فصل۔ ج قطع و قطعات

والقطع: کٹنے کی جگہ۔ کٹے ہوئے ہاتھ کا

بقیہ۔ ج قطع و قطعات۔ قطعات الشجر

وقطعاتها وقطعاتها: درخت کی گرہ کے

اطراف کہ جن کے کاٹ دینے کے بعد پھر دوبارہ

نکلے۔

القطاع: کاٹنے کا آلہ۔ ج قطع ا

والقطاع: رات کی پہلی تہائی۔ القطاع والقطاع

در اہم۔

القطاع: کاٹنے میں جو گرے۔ کاٹا ہوا کٹرا۔

لحمہ جس میں سے آدھا کھالیا جائے اور آدھا رہنے

دیا جائے۔

القطاع: فی اصطلاح عامۃ النصارى:

گوشت اور بعض کھانے کی چیزوں سے بعض

مخصوص دونوں میں پرہیز۔

القطاع: کپڑوں اور چوپایوں کا لگہ۔ ج قطعان و

قطع و أقطع و ج أقطع۔ ج قطع۔ جس

سے تیر بنایا جائے۔ درخت یا ٹہنی سے جو کاٹا

جائے۔ ج قطعان و قطع و أقطع و أقطع

و أقطع و قطع و قطعات۔ قطع شیبہ۔

جیسے "هُوَ قِطْنُهُ" وہ غلتت اور تہ میں اس کے

مشابہ ج قطعان و أقطع۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ قِطْنُ الْقِيَامِ" وہ بوجہ ضعف یا تریبی کے

اٹھنے سے عاجز ہے۔ "وَأَمْرًا قِطْنُ الْكَلَامِ" کم

سخن عورت۔ "جُجُلٌ قِطْنٌ" سانس پھولا ہوا

مرد۔ مَوْتٌ قِطْنٌ: امرأة قِطْنٌ وَقَطْنٌ

کھڑے ہونے میں ست عورت۔ کہا جاتا ہے

أَشْوَالُ الْقِطْنَاءِ قطع تعلقات سے بچو۔

القِطْنِيَّةُ: جدائی۔ وظیفہ۔ قطع تعلقات۔ ٹکس۔

جاگیر ج قطعان۔

الإقطاع: جاگیر ج اقطاعات۔

التقطيع: مہ۔ پیٹ میں مروڑ۔ تقطيع

الرجل: تدو قامت۔ ج تقاطيع۔

الأقطوعة: قطع تعلقات کی علامت جو ایک

دوسرے کو بھیجے۔

القاطع: فا۔ روکنے والا۔ کاٹنے کا آلہ۔ نمونہ

جس پر کپڑا وغیرہ قطع کیا جائے۔ کہا جاتا ہے قطع

الآدينم على القاطع: ایسی دلیل جو سارے شکوک و

شبهات کا ازالہ کرنے والی ہو۔ سَيْفٌ قَاطِعٌ:

شمیر براں۔ قَاطِعُ الطَّرِيقِ: چور ڈاکو ج قطع

وقطاع۔

القطاع: قاطع کا مؤنث ج قواطع۔

طَبِيْبٌ قَاطِعٌ: جائزے اور گرمی میں ایک جگہ نہ

رہنے والے پرندے۔

القطاع: اسم مبالغہ۔ القطار في اصطلاح

البنائين: پتھر کاٹنے والا۔

القطاع: بخت کاٹنے والا۔ مِنَ النَّوْقِ:

اُونٹنی جس کا دودھ جلدی سے ختم ہو جائے۔

الاقطاع: کٹے ہوئے ہاتھ والا۔ مَوْتٌ

قِطْعَانٌ ج قطع و قطعان۔ وَحَمٌ قِطْعَانٌ: قطع

تعلقات۔

المقطع: کاٹنے یا کٹنے کی جگہ ج مقاطع۔ کہا

جاتا ہے "شَرَابٌ لَذِيذٌ الْمَقْطَعِ" پینے کی چیز

آواز کرتا۔
تَقَطَّفَ الزُّجْلُ فِي الْأَمْرِ: مردو کا معاملات میں خود سر ہونا۔ فِي الْبَلَاءِ: جانا۔ سفر کرنا۔
الدَّلْوُ إِلَى الْبُيْرِ: ڈول کا کونوں میں آنا۔
الزُّجْلُ: چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔
الْقَطْفُ: اول یا چھوٹے قطرہ کی بارش۔
الْقَطْفَاطُ: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے "جَاءَتْ مِنَ الْخَيْلِ قَطَايِظٌ" یعنی گھوڑے گروہ گروہ آئے۔
قَطَّلَ (ان ض) قَطْلًا وَقَطَّلَ الشَّيْءُ: کاٹنا۔ قَطَّلَ عُنُقَهُ: گردن پر مارنا۔ وَقَطَّلَهُ: پھاڑنا یا ایک پہلو پر گرا دینا۔
تَقَطَّلَ الْجَدْعُ: بند کا جڑ سے کٹنا۔
الْقَطْلُ وَالْقَطِيلُ مِنَ الشَّجَرِ وَنَحْوَهُ: کٹنا ہوا۔ کہا جاتا ہے "نَخْلَةٌ قَطِيلٌ وَجَدْعٌ قَطْلٌ" وقَطِيلٌ" یعنی جڑ سے کٹا ہوا۔
الْقَطِيئَةُ جَمَائِزٌ جَسَّ سَاطِئًا وَغَيْرَهُ صَافٍ كَمَا جَاءَتْ۔
الْمَقَطَّلُ: مضمون پکا ہوا۔
الْمَقَطَّلُ: کٹنے کا لہجہ یا مقابلہ۔
الْقَطْلُ: ایک درخت ہے جس میں انگور کے مانند سبز دانے آتے ہیں اور جب پک جاتے ہیں تو سرخ ہو جاتے ہیں اور میٹھے ہوتے ہیں وہ واحد قَطْلَانَةٌ۔
قَطْمَةٌ (ض) قَطْمًا: دانہ سے کاٹ کر چکھنا۔
قَطْمُ الْفُؤَادِ: دانہ سے کاٹ کر تخی زری معلوم کرنا۔
الشَّيْءُ: کاٹنا۔ اللَّحْمُ وَغَيْرُهُ: گوشت وغیرہ کا خواہش مند ہونا۔ الصَّفْرُ إِلَى اللَّحْمِ: شکرہ کا گوشت کا خواہش مند ہونا۔
قَطْمُ (س) قَطْمًا: گوشت وغیرہ کا خواہش مند ہونا۔ صفت قَطْمٌ۔
قَطْمُ الشَّارِبِ: پینے والے کا چکھنا اور منہ بنانا۔
الْقَطَامُ: شکرہ۔ گوشت کا خواہش مند شکرہ۔
الْقَطَامِيُّ وَالْقَطَامِيُّ: تیز نظر کا شکرہ جو شکر کی طرف نظر اٹھائے ہوتے ہو۔ الْقَطَامِيُّ وَالْقَطَامِيُّ: تیز شراب۔ زَجْلٌ قَطَامِيٌّ

إِقْطَفَ: اِقْطَفْنَا: سانس چھوٹنا۔
إِقْطَفْنَا: اِقْطَفْنَا: سانس چھوٹنا۔
قَطَّفَ (ض) قَطْفًا وَقَطَّفَهُ: خراش کرنا۔ چھیلنا۔
قَطَّفَ وَقَطَّفَ وَإِقْطَفَ الشَّمْرَ: پھل چننا۔
جمع کرنا۔ الشَّيْءُ: ایک لینا۔ قَطْفٌ مَعْسَلَةٌ: شہد نکالنا۔ اِقْطَفَ الْكَلَامَ: کلام کا خلاصہ کرنا۔
قَطَّفَ (ان ض) قِطَافًا وَقَطَّفُوا الْفَرْسَ وَغَيْرَهُ: گھوڑے کا آست چلانا۔
أَقْطَفَ الْكُزْمَ: انگور توڑنے کے قابل ہونا۔
الزُّجْلُ: بست رفتار جانور کا نالک ہونا۔
الْقَطْفُ: مہ۔ خراش قَطْفُوفٌ۔
الْقَطْفُ: اڑ۔ نشان۔ ج قَطْفُوفٌ۔ ایک سبزی، ایک پہاڑی درخت جس کی کڑی مضبوط ہوتی ہے۔ واحد قَطْفَةٌ۔
الْقَطْفُ: توڑا ہوا پھل۔ انگوروں کا خوشب و قِطَافٌ وَقَطْفُوفٌ۔
الْقَطْفَةُ: ایک خاردار سبزی جس کا اندرونی حصہ سرخ اور پتے اس کے خاکستری ہوتے ہیں۔
الْقِطَافُ وَالْقِطَافُ: میوہ توڑنے کا موسم۔
قِطَافُ بَرُوزِ قِطَافٍ: یعنی لونڈی۔
الْقِطَافَةُ: میوہ توڑنے کے وقت جو گر پڑے۔
الْقَطْفُوفُ: مِنَ الدَّوَابِّ: بست رفتار۔ جانور ج قَطْفٌ۔
الْقِطِيفُ وَالْمَقْطُوفُ: توڑا ہوا۔
الْقِطِيفَةُ: چھوڑا چارو ج قِطْفٌ وَقِطَافٌ الْقِطَافِيَّةُ: ایک قسم کا کمانا جو آنے سے تار کیا جاتا ہے اور وہ چونکہ چھوڑ کے مشابہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو قِطَافٌ کہتے ہیں۔
الْقِطِيفَةُ: ایک قسم کی گھاس ہے جس کو مسالِفُ الْعَرَبُوسُ بھی کہتے ہیں۔
الْمَقْطُوفُ: ٹوٹری جس میں پھل چننا جائے ج مَقَاطِيفٌ۔
الْمَقْطُوفُ: پھل توڑنے کا آلہ۔ خوشی کی جرج مَقَاطِيفٌ۔
الْمَقْطُوفَةُ: ہتہ قد۔
قَطَّقَطَ قَطَّقَةً السَّحَابِ: اوسلے برساتا۔
بَارِكْ بَارِشَ بَرَسَاتٍ قَطَّقَطَتِ الْحَجَلَةَ: پھور کا

جس کا آخر خوشوار ہو "مَقَاطِغُ الْأَنْهَارِ" نہروں میں جہاں گزر سکیں۔ "مَقَاطِغُ الْكَلَامِ" وقت کرنے کے مواقع مَقْطُوعُ الْحَقِّ: جس سے باطل منقطع ہو جائے مَقْطُوعُ حَرَكَتِ كَرْنِ وَالْحَرْفِ: یاد حرف جس میں دوسرا ساکن ہو۔ مَقْطُوعُ الْحَرْفِ: حرف کا مخرج۔ مَقْطُوعُ: جس کی جہت منقطع ہو گئی ہو۔ دلیل سے عاجز و خاموش۔
الْمَقْطُوعُ: انجینی۔ مسافر۔ عورتوں کی خواہش نہ رکھنے والا۔ وہ شخص جس کا نام دیوان و عاقبت میں نہ ہو یا وہ شخص جس کے ہمسروں کو ملے اور وہ محروم رہے۔ مَقْطُوعُ النَّهْرِ: دریا کی پیاب جگہ۔
الْمَقْطُوعُ: کٹنے کا آلہ۔ نمونہ جس پر چرا وغیرہ کاٹا جائے۔ سَيْفٌ مَقْطُوعٌ: شمشیر براں۔
الْمَقْطُوعُ: ہماری چارہ پر قائم نہ رہنے والا۔ بِنُو مَقْطُوعٌ: کتوں جس کا پانی جلدی نیچے آتا جائے مَقْطُوعُ الْكَلَامِ: وہ شخص جو لوگوں کو لہجہ جواب کر دینے کا عادی ہے۔
الْمَقْطُوعَةُ: کٹنے کی جگہ۔ کٹنے کا سبب کہا جاتا ہے "الْمَقْطُوعَةُ لِلنَّوْدِ" یعنی جدائی دوستی کے قطع کا سبب ہے۔
الْمَقْطُوعَةُ وَالْمَقْطُوعَاتُ: چھوٹے کپڑے اور یہ اسم جنس ہے اس کیلئے مفرد نہیں۔ بلکہ سارے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو مَقْطُوعَاتُ وَمَقْطُوعَةٌ کہتے ہیں وَمَقْطُوعَاتُ الشَّيْءِ: کسی چیز کے وہ طریقے جن کی طرف اس کی تحلیل و ترکیب ہو۔
الْمَقْطُوعَاتُ مِنَ الشَّعْرِ: چھوٹے اشعار یا جرج۔
مَقْطُوعُ الْأَسْحَابِ وَمَقْطُوعَةُ الْأَسْحَابِ وَمَقْطُوعَةُ الْقَلُوبِ: خروش۔
الْمَقْطُوعُ مِنَ الْوَادِي وَنَحْوَهُ: وادی کا آخری سرا۔
الْمَقْطُوعُ: نا۔ کہا جاتا ہے "مَقْطُوعُ الْقَرْنِ" وہ معدوم الظہیر ہے "هُوَ مَقْطُوعُ الْعُقَالِ فِي الشَّيْءِ" یعنی کوئی اس کا روکنے والا نہیں۔
الْمَقْطُوعُ: نا۔ ہتہ قد۔ عَزَّةٌ مَقْطُوعٌ: پیشانی کی سپیدی تختوں سے آگے بڑھ کر آگے تک پہنچنے والی۔

مخاطبات میں خود سر مرد۔

القَطَامَةُ۔ جو منہ سے کاٹا جائے پھر پھینک دیا جائے۔

القَطْم۔ غصباک۔

القَطِيْمَةُ۔ دودھ جس کا مزہ خستہ ہو گیا ہو۔ کلوا۔ غلہ کا ایک لپ۔ کہا جاتا ہے شئی مُزُّ المَقَطْمِ مزے کے لحاظ سے کھٹ مٹی چیز۔

المَقَطْم۔ چنگل ج مقاطم۔

المَقَطْم۔ مصر کے ایک پہاڑ کا نام۔

القَطْمِيْر والقَطْمَار۔ سمجور کی کھلی کے پتے کا باریک چمکا یا سمجور کی کھلی کے اوپر

باریک چمکا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَصَبْتُ مِنْهُ قَطْمِيْرًا" یعنی میں نے اس سے کچھ نہیں پایا۔

القَطْمِيْر۔ اصحاب کعب کے کتے کا نام۔ اور امام ابن کثیر مفسر حدیث کے نزدیک قَطْمُوْر ہے۔

قَطْن (ن) قَطْنُوْنَا فِي الْمَكَانِ وَبِهِ اِقَامَتُ كِرْنَا وَطِنٌ بِنَا۔ الزَّجْلُ۔ خدمت کرتا۔

قَطْن (س) قَطْنَا۔ ظَهْرُهُ يَبِيْضُ كَالْحَمَلِ۔ صَفْتُ اَقَطْن۔

قَطْنُهُ بِالْمَكَانِ۔ اِقَامَتُ كِرْنَا۔ قَطْنُ الْكُرْمِ اِكْمُوْر كِي تَلُّ كَالْحَوْثِ وَار بُوْنَا۔

القَطْن۔ مہ۔ اقامت کی جگہ۔ پرندہ کی ذم کی جڑ۔ دونوں سرینوں کے درمیان۔ پشت انسانی کا

پست اور ہموار حصہ۔ ج۔ اَقَطْن۔

القَطْن والقَطْن۔ زوئی۔ ایک کلرے کو قَطْنَةُ کہتے ہیں اور قَطْن اسم جنس ہے اور کبھی اس کی

جمع اَقَطَان آتی ہے۔

القِطْنَةُ والقِطْنَةُ۔ اوجھ کا پرت دار حصہ۔ القِطْنَةُ۔ سرینوں کے درمیان کا گوشت۔

القِطَان۔ ہورج کی کڑی۔ ج۔ قَطْنُ۔ القِطَانَةُ۔ بانڈی۔ ویک۔

القِطْيَانَةُ والقِطْيَانَةُ۔ دانے جو پکائے جائیں۔ جیسے مسور، چنا وغیرہ۔ ج۔ قَطْيَانِي۔ زوئی کے بنے ہوئے کپڑے۔

القِطَان۔ فاج قَطَان وقِطَانِ۔ القِطَانِ۔ یعنی قِطَانِ۔ جمع قِطَانِ۔ گھر کے لوگ۔ خادم۔ نوکر چاکر (واحد و جمع) یا ج قَطْنِ کہا جاتا ہے "هُؤْلَاءِ قِطْيَانِ فُلَانٍ" یعنی یہ لوگ

فلاس کے نوکر چاکر ہیں۔ "قِطْيَانُ اللّٰهِ" اللہ کے حرم کے رہنے والے لوگ۔

القِطْيَانَةُ۔ گھر کے رہنے والے۔

القِطَان۔ زوئی کا بیٹے والا۔

قِطَانَاتُ مَكَّةَ وَقِطْلَانَهَا۔ مکہ کے کوثر۔

القِطْبَان۔ ریشم وغیرہ سے جو ریشم کی مانند بنا جائے۔

المَقَطْنَةُ۔ زمین جس میں زوئی پوئی جائے۔

القِطْبَانِ۔ تیل والی نباتات جیسے کھیرا، کھڑی وغیرہ۔ کدو کیلئے اکثر مستعمل ہے واحد يَقِطْبَانَةُ۔

القِطْبَانُونَ۔ بڑے کمرہ میں چھوٹا کمرہ۔

قِطْلَانِيْقَطْلُوْا قِطْلُوْا۔ بوجھل چال سے چلنا۔ القِطْلَا: قِطْلَاكَ اَوْ اَزْكِرْنَا۔ المَاضِي: اَبَسْتَ چلنا یا نشاٹ سے چلنا۔

تَقَطَّلَ۔ ویر کرنا۔ الفَرَسُ: گھوڑے کے پیٹے پر سوار ہونا۔ لَاضْحَابِهِ: ساتھیوں کو فریب دینا۔ بُوْجْهِهِ عَنَهُ: زور گردانی کرنا، اعراض کرنا۔

اَقِطْوُطِي۔ اَبَسْتَ چلنا یا نشاٹ سے چلنا۔

القِطَاط۔ کوثر کے برابر ایک پرندہ۔ ج۔ قِطَا وَقِطْوَاتُ وَقِطْيَانِيَاتُ۔ القِطَاةُ مِنَ الدَّابَّةِ: چوڑے۔ روئیف کے بیٹنے کی جگہ۔ دونوں سرینوں کے درمیان۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبُوْا فِي الْاَزْحٰصِ يَقِطُّوْا" زمین میں متفرق ہو گئے۔

القِطْوَانُ والقِطْوَانُ والقِطْوُطِي: اَبَسْتَ چلنے والا۔ القِطْوُطِي: لمبی ٹانگوں والا۔

القِطْيَانِي۔ تاریل کی چھال کی ریشم۔

قَعْدَةُ (ن) قَعْدَا بَعْدَا بَعْدَا۔

اَقْعَ الْقَوْمُ۔ کھودنا اور کھاری پالی پر بھیج کرنا۔ القَعُّ والقَعَاعُ مِنَ المِيَاهِ: بہت زیادہ کھاری پالی کہ اس سے زیادہ کھاری پالی نہ ملے۔

قَعَبَ الحَافِيْرُ: سم کا ٹنڈ دار ہونا۔ قُلَانٌ فِي الْكَلَامِ: حلق کے استمالی حصہ سے پونا۔

القَاعِبُ۔ بلبانے والا بھیڑیا۔

القَعْبُ۔ بڑا پیالہ۔ ج۔ اَقْعَبُ وَقِعَابُ وَقِعْبَةٌ قَعْبُ الْكَلَامِ: کلام کی گہرائی۔

القَعْبَةُ۔ پہاڑ کا کراخ۔

القَعِيْبُ۔ عدد کثیر۔

القَعْبِلُ والقَعْبِيلُ۔ سانپ کی چھتری کی ایک قسم۔ القَعْبِيلُ: دودھ دہونے کا پیالہ۔ خرد درشت خو۔

قَعَتَ (ن) قَعْتَا وَقَعْتَا لَهٗ مِنَ الشَّيْءِ: لپ بھر دینا۔ وَقَعَتَ الشَّيْءُ: جڑ سے اکھیرنا۔ اَقَعْتُ فِي مَالِهِ: فضول خرچی کرنا۔ لَهٗ العِطِيَّةُ: بہت دینا۔

اِقْعَتَ الحَافِيْرُ: کھودنے والے کا کوئیں سے بہت مٹی نکالنا۔ لَهٗ العِطِيَّةُ: بہت دینا۔ اِنْقَعَتْ: جڑ سے اکھیرنا۔ الحَافِيْظُ: دیوار کا جڑ سے گرتا۔

القَعِيْبِيْتُ۔ آسان۔ موسلا دھار بارش۔ بڑا سیلاب۔

قَعْدُ (ن) قَعُوْدًا وَمَقْعَدًا۔ کھڑے سے بیٹھنا۔ قَعُوْدًا: کھڑا ہونا۔ قَعْدِيْهِ: بٹھانا۔

قَعْدٌ عَنِ حَاجَبِيْهِ: پیچھے رہنا۔ فُلَانٌ يَقْعِيْهِ: ہمسر ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "قَعْدِيْ بِي عَنَّا شَغْلٌ"۔ مجھ کو تم سے کام کاج نے روک دیا۔

يَلْحُزْبُ: جنگ آزمایہ لوگوں کو مہیا کرنا۔ قَعْدَتُ التَّخَلُّةِ: دوسرے سال پھل دینا۔ القَيْبِيْلَةُ: پودے کا سہ والا ہونا۔

المَعْرَاةُ: عورت کے شوہر کا لاپتہ ہونا۔ اور صبار اور طوق کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے "قَعْدِيْ شَيْخِي"۔ وہ مجھے گالی دینے لگا۔

قَعْدَةٌ: خدمت کرنا۔ کہا جاتا ہے "قَعْدُ اَيَّاهُ" اس نے اپنے باپ کو بھادیا۔ یعنی اس کی کمانی اس کے باپ کے لیے بھی کافی ہے۔ قَعْدَةٌ عَنِ كَذَا: روک دینا۔

اَقْعَدَهُ: بٹھانا۔ اَقْعَدَهُ عَنِ الْاَمْرِ: روک دینا۔ اَقْعَدَ بِالْمَكَانِ: اِقَامَتُ كِرْنَا۔ الزَّجْلُ: کھڑا کرنا۔ خدمت کرنا۔ اَيَّاهُ: کمانی کی

مشقت کے لیے کافی ہونا۔ البَشْرُ: کنواں بیٹنے کے لائق کھودنا اور پالی تک نہ پہنچنا۔ اَقْعَدَ: قَعَادُ کی بیماری والا ہونا۔ اَقْعَادُ: ایک بیماری ہے جس میں آری چلنے پھرنے سے معذور رہتا ہے۔

تَقَعَّدَ: توقف کرنا۔ تَقَعَّدَ عَنِ الْاَمْرِ: طلب کا انتظام کرنا۔

تَقَعَّدَ عَنِ الْاَمْرِ: طلب

تَقَعَّدَ عَنِ الْاَمْرِ: طلب

تَقَعَّدَ عَنِ الْاَمْرِ: طلب

تَقَعَّدَ عَنِ الْاَمْرِ: طلب

تَقَعَّدَ عَنِ الْاَمْرِ: طلب

کرتے کو چھوڑنا۔
 مَقَاعِدُهُ مَقَاعِدَةٌ دوسرے کے ساتھ بیٹھنا۔
 تَقَاعَدِيهِ فَلَانٌ: حق ادا نہ کرنا۔
 اِتَّقَعَدَ الذَّائِبَةَ: چیرا پیر کو سواری بنانا۔
 کہا جاتا ہے "مَا اِتَّقَعَدَكَ عَنَهُ" کس چیز نے تم کو
 اس سے روکا۔
 القَعْدُ: وہ لوگ جو شریک جنگ نہ ہوں۔ فوجی
 لوگ جن کی تنخواہ مقرر نہ ہو۔ خوارج۔
 القَعْدَةُ قَعْدٌ کا اسمِ مرتہ۔ انسان کے لیے
 سواری، عالیجہ () والقَعْدَةُ اتنی جگہ جو
 بیٹھے میں گھرے۔ القَعْدَةُ: بیٹھے کی ہیئت۔ پتھر
 قَعْدَةٌ: انسان کے بیٹھے کی مقدار کا گڑھا۔ ذُو
 القَعْدَةِ ذُو القَعْدَةِ: قمری مینوں میں سے
 گیارہواں مینہ۔
 القَعْدَةُ: بیٹھے کی چیز۔ گدھا۔ مین
 الإبل: چرواہے کے لیے ہرجاجت میں سواری کا
 اُونٹ ج قَعْدَات۔
 القَعْدَةُ: سواری۔ عالیجہ۔
 القَعْدَةُ: بہت بیٹھے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قَعْدَةٌ
 ضَجَعَةٌ" وہ بہت بیٹھے والا لینے والا ہے۔ یعنی
 بہت کال ہے۔
 الإقْعَادُ والقَعَادُ: ایک بیماری ہے جس کو یہ
 لاحق ہوتی ہے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا
 ہے۔
 القَعَادُ: بیوی۔
 القَاعِدُ: ج قَعْوُد۔ غلے سے بھرے ہوئے
 گون۔ عورت جس کے لڑکا اور شوہر کوئی نہ ہو۔
 القَاعِدَةُ قَاعِدٌ کاموٹ۔ قَاعِدَةُ التَّشَالِ:
 وہ بلند چوڑے وغیرہ جس پر مجسمہ نصب کیا جائے
 والقَاعِدَةُ مِنَ النَّبِيْتِ: بنیاد۔ مین
 الهُوْدُجُ: بوہ کی کڑی۔ مین البلاد: بڑا
 شرح قواعد۔ والقَاعِدَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ:
 اصل کلی جو سارے جزئیات پر منطبق ہو۔
 القَعْدِيُّ والقَعْدِيَّةُ والقَعْدِيَّةُ بہت بیٹھے
 والا۔ القَعْدِيَّةُ: عاجز۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ قَعْدِيٌّ
 ضَجِيْعٌ" بہت بیٹھے اور لینے والا مرد۔
 القَعْوُودُ والقَعْوُودَةُ مِنَ الْاِبِلِ: چرواہے کا ہر
 حاجت میں سواری کا اُونٹ۔ القَعْوُودُ: اُونٹ کا

بچہ۔ جوان اُونٹ۔ ج اَقْعِدَةٌ وَقَعْدُو قَعْدَانٌ
 قَعَانِد۔
 القَعِيْدُ: (واحد جمع مذکر مونث) ہم نشین۔
 تمہاں۔ مڈی کہ ابھی اس کے پر اچھی طرح سے نہ
 نکلے ہوں۔ پر نہ دیا ہرن جو تمہارے پیچھے سے آئے
 اور اس سے بد فال لی جائے (اور یہ نطیح کے
 خلاف ہے) قَعِيْدٌ اَكْلٌ اَمْرٌ: دائیں بائیں کے
 مخالف۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ قَعِيْدُ التَّنَسِبِ" فلاں
 قریب النسب ہے۔
 القَعِيْدُ: قعودی تفسیر۔ اور اسی سے مثل ہے
 "اِتَّخَذُوهُ قَعِيْدَ الْحَاجَاتِ" جب کہ کسی شخص
 سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔
 الأَقْعُدُ التَّنَسِبِ: مورث اعلیٰ سے قریب
 النسب۔
 القَعِيْدَةُ: عورت۔ بیٹھے کی چیز۔ بوراج قَعَانِد۔
 المَقْعُدُ: بیٹھے کی جگہ۔ ج قَعَاعِد۔
 المَقْعُدَةُ: بیٹھے کی جگہ۔ شخص کا نچلا حصہ۔
 پاخانہ کرنے کا برتن۔
 المَقْعُدُ: قَعَاد کی بیماری والا۔ پانچ۔ ابھری ہوئی
 پستان۔ گدھ کا بچہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَقْعُدٌ
 الْأَنْفِ" یعنی اس کے نتھے کشادہ ہیں و"فَلَانٌ
 مَقْعُدُ الْحَسَبِ" فلاں شریف نہیں ہے۔
 المَقْعُدَةُ: مقعد کاموٹ۔ کٹواں کھودا جائے
 اور بغیر پانی نکلے ہوئے چھوڑا جائے۔
 المَقْعُدَات: مینڈکیں۔ قظا کے بچے اُنٹے سے
 پیلے۔
 القَعْدُو والقَعْدُو والقَعْدُو ذُو مَرْتِ اَعْلٰی سے
 قریب النسب۔ مورث اعلیٰ سے بعید النسب (معد)
 القَعْدُودُ: بزدل۔ کینہ۔ مکارم اخلاق سے باز رہنے
 والا۔ گنام۔
 زَجَلٌ قَعْدُوْدَةٌ: بزدل۔
 قَعْوَهُ (ف) قَعْوًا: چھڑاؤ۔ قَعْرُ الشَّجَرَةِ:
 درخت کو جڑ سے اُکھڑنا۔ الانَاءُ: برتن سے
 سب کچھ پی لینا۔ البُسْرُ: کنوئیں کی گرائی میں
 اترنا۔ گمرا کرنا۔ قَعْرَتِ الشَّاءِ: بکری کا تمام بچہ
 گمرا۔
 قَعْرُ (ك) قَعَارَةُ الْمَاءِ: پانی بہت گمرائی میں
 ہونا۔

قَعْرُ البُسْرِ: کنوئیں کو گمرا کرنا۔ مین
 كَلَامِهِ: حلق سے بولنا۔ الرَّجُلُ: چننا
 الشَّيْءُ: گمرا بنانا۔ وَقَعْرَتِ الشَّاءِ: بکری
 کا ناتمام بچہ گمرا۔
 أَقْعَرُ البُسْرُ: کنوئیں کو گمرا کرنا۔
 النَّجْمُ: ستارے کا برتن کے پیندے میں ظاہر
 ہونا۔
 تَقَعَّرَ: گمرا ہونا۔ پچھڑنا۔ متقلب ہونا۔ مین
 كَلَامِهِ: حلق سے بولنا۔ الشَّيْءُ: گمرا
 ہونا۔
 اِنْقَعَرَا: اُکھڑنا۔ مرنا۔
 القَعْرُ: مہ۔ مین كَلَى شَيْءٍ: گمرائی۔
 القَعْرُ: بڑا پیالہ۔ پست زمین۔ عقل کال۔ قَعْرُ
 الفم: منہ کا اندرونی حصہ ج قَعْوُر۔ اور کہا گیا
 ہے "مَا فِي هَذَا القَعْرِ مِثْلُهُ" یعنی اس شرمیں
 اس جیسا کوئی نہیں۔ و جَلَسَ فَلَانٌ فِي
 قَعْرِ بَيْتِهِ: کنا یہ ہے ہمیشہ گھر میں رہنے سے۔
 القَعْرَةُ والقَعْرَةُ: جو چیز بالہ کے گڑھے کو چھپا
 لے۔ القَعْرَةُ: پست زمین۔ کہا جاتا ہے اِنَاءٌ
 قَعْرَانٌ وَمِقْعَارٌ زِيَادَةٌ گمرا پیالہ و قِصْعَةٌ قَعْرِيٌّ:
 پیالہ جس میں کوئی چیز ہو جو اس کے گڑھے کو چھپا
 لے۔ و قِدْحٌ قَعْرَانٌ: گمرا پیالہ۔
 القَعْوُورُ والقَعْوِيَّةُ: زیادہ گمرا۔
 القَيْعَرُ والقَيْعَارُ والمِقْعَارُ: حلق سے بولنے
 والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گمرا بڑا پیالہ۔
 المَقْعَرُ: گمرا۔ المَقْعَرُ مِنَ المَخْطُوْبِ: وحشی
 ہوئی لکیر۔
 القَعْوُورُ: گمرا کٹواں۔
 قَعْرٌ مَقْعَرٌ طَلَةٌ: آجاڑنا۔ ویران کرنا۔ وُحَاثَا۔
 قَعْرٌ (ف) قَعْرًا: اِنَاءٌ: برتن کو بھرننا۔
 مَا فِي الْاِنَاءِ: برتن سے سب کچھ پی لینا۔
 قَعْسٌ (س) قَعْسًا وَاَقْعَسْتَسْ: سینہ دکھانا اور
 پیٹھ دھنسا۔ صفت قَعْسٌ ج قَعْسَانٌ وَاَقْعَسَ
 مَوْتٌ قَعْسًا ج قَعْسٌ۔
 قَعْسٌ (ن) قَعْسًا: سینہ ابھار کر اور پیٹھ دھنسا
 کر چلنا۔ الشَّيْءُ: موڑنا۔
 قَعْسٌ (ض) قَعْسًا: بکلف سینہ ابھار کر اور
 پیٹھ دھنسا کر چلنا۔

قَعَطَلَةٌ: بچاڑنا۔ قَعَطَلْتُ عَلَى غَرْنِيمِهِ: قرض دار سے قرض کے مطالبہ میں سختی کرنا۔

القَعَطَلُ: تیز۔ جلد باز۔

قَعَفَ (ف) قَعْفًا: التُّرَابُ: تیز دوڑنے کی وجہ سے غبار اُڑانا۔ التَّخْلَةُ: درخت خرما کو جڑ سے اکھڑنا۔ مَا فِي الْإِنَاءِ: برتن سے سب کچھ لے لینا۔ الْمَنْظَرُ الْحَبَاوَةَ: بارش کا پھر کو ہمالے جانا۔

قَعَفَ (س) قَعْفًا: الْحَائِطُ: دیوار کا گرنا۔

تَقَعَفَ وَانْقَعَفَ: انْقَعَفَ الْحَائِطُ: دیوار کا جڑ سے مندم ہونا۔ الْجُرْفُ: وادی کے کناروں کا گرنا۔ الشَّيْءُ: اپنی جگہ سے زائل ہونا۔ انْقَعَفَ الشَّيْءُ: حرص سے لینا۔

القَعْفُ: مہ۔ چھوٹی چھوٹی پھاڑیاں جو سلسلہ دار ہوں۔

القَاعِفُ: نا۔ سخت بارش۔

سَبِيلُ قَعَافٍ: سخت سیلاب جو تمام چیزوں کو ہمالے جانے۔

قَعَفَرُ الرَّجُلِ: اکڑاؤں بیٹھے والے کی طرح بیٹھنا۔ فِي الْمَشْيِ: چھوٹے چھوٹے قدم سے چنانالہ الْكَلَامِ: کسی کو سخت کلامی سے اپنے آپ سے ہٹانا۔

تَقَعَفَرُ الرَّجُلُ: بیٹھنا۔

انْقَعَفَرُ: اس شخص کی بیٹھک بیٹھنا جو کودنے کو تیار ہو۔

انْقَعَفَرُوا: اس شخص کی بیٹھک جو کودنے کو تیار ہو۔

قَعَفَبَ قَعْفَبَةً: زخم کرنا۔

القَعْفَبَةُ: زخم۔

القَعْفَبُ: ایک قسم کا پرندہ جو سانپوں کو کھاتا ہے۔

قَعَفَعُ قَعْفَعَةً: السَّلَاحُ: جھکا ہونا۔

قَعَفَعْتُ عُمْدَهُمْ: کوچ کرنا۔ الشَّيْءُ الْبَائِسُ: آواز کے ساتھ حرکت دینا۔

الْقِدَاحُ: تیروں کو جو سے میں گھمانا۔ فِي الْأَرْضِ: جانا۔ کہتے ہیں "فَلَانٌ مَا يَقَعْفَعُ لُهُ بِالْبِسْتَانِ" اس شخص کے متعلق جو حوادث زمانے سے خائف نہ ہو اور ہلکا رہے۔

القَعَصُ: مہ۔ فی الفور موت۔ مندم شدہ مکان۔

القَعَاصُ وَالْمِقْعَاصُ: شیر جو شکار کو فوراً مار ڈالے۔

القَعُوصُ: بکری جو دوڑنے والے کو مارے اور دوڑنے نہ دے۔

قَعَصَ (ن) قَعَصًا: الْغُصْنُ: شاخ کو موڑنا۔

انْقَعَصَ: بھگنا۔

القَعَصُ: مہ۔ بھگا ہوا۔ کہا جاتا ہے "عُوذٌ قَعَصٌ" جھکی ہوئی لکڑی۔ یہ وصف بالصدر ہے۔

قَعَصَبَ قَعَصَبَةً: جڑ سے اکھڑنا۔

القَعَصَبُ: بست و لیر۔ قوی۔ القَعَصَبَةُ: سختی۔

القَعَصَمُ: بڑھا جس کے دانت گر گئے ہوں۔

قَعَطَ (ف) قَعَطًا: بست چھیننا۔ بڑل ہونا۔ خشک ہونا۔ فَلَانًا: دھکارنا۔ بچھاڑنا۔

الشَّيْءُ: ضبط کرنا۔ عَنْ وَجْهِهِ: چہرہ کھولنا۔

عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔ (وَ انْقَعَطَ) الْعِمَامَةُ: سر پر پگڑی باندھنا۔ قَعَطَ وَقَعَطَ الدَّابَّةُ: چوپایہ کو تیز ہانکنا۔ صفت قَعَاطٍ وَقَعَطَ وَقَعَطَ عَلَى غَرْنِيمِهِ: قرض دار پر سختی کرنا۔ تَقَاصَا كَرْنِي فِي سَبِيلِ قَعْفَاءَ: قرض دار پر سختی کرنا۔ قَعْفَاءُ: بیوہ۔

بکنا۔

قَوَّطَ (س) قَعَطًا: زبیل ہونا۔

أَقْفَطَ: سخت چھیننا۔ فِي الْقَوْلِ: بیوہ بنانا۔ أَقْفَطُهُ: اہانت کرنا۔ زبیل کرنا۔ الْقَوْمُ عَنَهُ: علیحدہ ہونا۔ جدا ہونا۔ فِي آفْرِهِ: بچھے دوڑنا۔

تَقَعَطَ وَانْقَعَطَ السَّحَابُ: بادل کا کھل جانا۔

القَاعِطُ: نا۔ قرض دار پر سختی کرنے والا۔

القَعَاطُ وَالْمِقْعِطُ: سخت قسم کا گھمڑی۔

القَعُطُ: مہ۔ بست بکریاں۔

المِقْعَطُ وَالْمِقْعَطَةُ: عمامہ۔ پگڑی جو سر کے اوپر باندھی جائے۔

قَعَطَبَ: الشَّيْءُ: کانٹا۔

قَعَطَرُهُ: بچھاڑنا۔ مضبوط باندھنا۔ قَعَطَرْنَا: الإِنَاءَ: برتن بھرنا۔

أَقْمَطَرْنَا: سانس منقطع ہونا۔

أَقْعَسَ: توارنگر ہونا۔

تَقَاعَسَ: سینہ نکالنا۔ عَنِ الْأَمْرِ: بچھے ہٹنا۔ فَلَانٌ: سینہ نکالنے والے کے مشابہ ہونا۔ الْقَرُوسُ وَغَيْرُهَا: ہانکنے والے کے تالچہ ہونا۔ الْعِزُّ: عزت کا پائیدار ہونا۔

القَعَاسُ: ایک بیماری جس سے بکریاں بست مرتی ہیں۔

الْأَقْعَسُ: بلند۔ عِزٌّ أَقْعَسُ: عزت ثابت۔

مَوْتٌ قَعَسَاءٌ: قَعَسٌ وَعِزَّةٌ قَعَسَاءٌ: عزت پائیدار۔ لَيْلٌ أَقْعَسٌ: لمبی رات۔ بَيِّزٌ أَقْعَسٌ: سر بیٹھ گردن جھکا ہوا اونٹ۔ قَرُوسٌ أَقْعَسٌ: پست پیٹھ کا گھوڑا۔

الْمُقْعَسِيسُ: نا۔ سخت۔ ج مقَاعِيسٍ وَ مَقَاعِيسٍ:

تَقَعُوسُ الشَّيْخِ: بست بوڑھا ہونا۔

النَّبِيْتُ: گرنا۔ الرَّجُلُ: بچھے ہٹنا اور آگے نہ بڑھنا۔

القَعُوسُ: بست بوڑھا۔ مضبوط پیٹھ والا۔

قَعَسَبَ قَعَسَبَةً: خوف کی وجہ سے تیز دوڑنا۔

القَعَاسِبُ: بلند قامت۔

قَعَسَرُ قَعَسَرَةً: مضبوطی سے پکڑنا۔ قَعَسَرَ عَلَيْهِ: قوی ہونا۔ الشَّيْءُ: سخت ہونا۔

القَعَسَرِيُّ: مضبوط اونٹ۔ چکی کا ہتھا۔ (Handel)۔ عِزٌّ قَعَسَرِيٌّ: عزت قدیم۔ اصلی عزت۔

قَعَسَ (ف) قَعَسًا: الْحَائِطُ: دیوار گرنا۔

وَحَاثًا: الشَّيْءُ: جمع کرنا۔

انْقَعَسَ: گرنا۔ الْقَوْمُ: جانا۔

القَعَسُ: مہ۔ بیوہ کی مانند عورتوں کی سواری ج قَعُوشُ:

قَعَصَةُ (ف) قَعَصًا: انْقَعَصَةُ: جگہ پر قتل کرنا۔ جگہ پر ہار ڈالنا۔

قَعِصَتُ الشَّاةِ: قَعَاصُ: بیماری کی ہوتا۔ (دیکھو قعاص) (دودھ دوڑنے میں مارنے والی ہوتا۔

انْقَعَصَ: جگہ ہی پر مرنا۔ الشَّيْءُ: مڑنا۔

القَعَاصُ: ایک بیماری ہے جو سینہ میں ہوتی ہے اور گردن کو توڑ دیتی ہے۔

تَفَعُّعٌ - مضرب ہوتا۔ متحرک ہوتا۔

حرکت کے وقت آواز دینا۔ تَفَعُّعَتْ غُمْدَهُمْ: وہ کوچ کر گئے۔

التَفَعُّعُ: ایک قسم کا کتا جو سفید و سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور نرم لمبی ہوتی ہے۔

التَفَعُّعُ: تھمیر کی بھکار۔ خشک بھجور۔ لرزہ کے ساتھ بخار۔ دشوار گزار راستہ اور التَفَعُّعَانِي: وہ شخص جس کے چلنے میں پیر کے جوڑوں سے آواز نکلے۔

التَفَعُّعُ: بادل کے گرج کی لگاتار سخت آواز اور یہ قَفْقَعَةٌ کی جمع ہے۔ القَفْقَعَةُ: دانتوں کی کڑکڑاہٹ۔

التَفَعُّعُ: بہت آواز والا۔

أَفْعَالٌ وَأَفْعَالٌ أَفْعَلًا: التَفَعُّعُ: شگوفہ لگانا۔

إِفْعَالٌ الزَّوْجِ: سوار کا سیدھا ہونا۔

إِفْتَعَلَ: الفَعَالُ: شگوفہ کو زور کرنا۔

الْفَعَالَةُ: واحد فَعَالٌ: شگوفہ جو جھڑ جائے۔

أَوْنَتْ كَأَمْرٍ أَوْحُونَ:

الْفَعْلُ: انگور کی سبز شاخوں کے نیچے لگانے کی کڑی۔

الْفَعِيلُ: زرخروش۔

الْفَاعِلَةُ: بلند پہاڑ کی قُوَاعِلُ۔

الْقُوَاعِلَةُ: چھوٹی پہاڑی۔ چھوٹا ٹیلہ۔

الْقَيْعَلَةُ: سخت بڑے ذیل ڈول کی عورت۔

پہاڑی کی چوٹیوں کا رہنے والا عقاب۔

قَعَمٌ (ن) فَعَمًا السُّتُورُ: لمبی کاسیاؤں میاؤں کرا۔

قَعَمٌ (س) قَعَمًا وَأَقْعَمَ الزَّجْلُ: بیمار ہو کر فوراً مرنا۔ أَقْعَمَتِ الْحَيَّةُ: بوسا اور فوراً مار ڈالنا۔

السُّمْسُ: آفتاب کا بلند ہونا۔

القَعَمُ: ہمہ لمبی کی آواز۔

القَعَمُ: ناک میں جھکاؤ۔

الْأَقْعَمُ: ناک میں جھکاؤ والا۔

قَعْمَةُ: المالِ: حمد مال۔

القَيْعَمُ: لمبی بوڑھا اونٹ۔

قَعْمَضٌ قَعْمَضَةٌ: ایک ہی مرتبہ میں سب پاشٹانہ کرنا۔

القَعْمُوزُ: سانپ کی چھتری۔ پاشٹانہ۔

الْقَعْمُوزُ وَالْقَعْمُوزَةُ: بھولنے بچنے کے گرد لپٹنے کا کپڑا۔ ج قَعْمَائِيظُ: القَعْمُوزَةُ: گھبرایا گولی۔

قَعِينٌ (س) قَعْنَا الْأَنْفُ: ناک کا چپٹا ہونا۔ بانسہ بلند ہونا۔ صفت أَقْعَنُ: مؤنث قَعْنَاءُ ج قَعْنٌ اور تَغْيِيرُ قَعْنَيْنِ۔

القَعْنُ: آٹا گوندھنے کا پلاہرتن۔

القَعَانُ: ناک کا چپٹا ہونا۔

القَيْعُونُ: ایک قسم کی گھاس۔

القَعْتَبُ وَالْقَعَائِبُ: سخت شیر۔

القَعْنِيَّةُ: پستہ قد عورت۔ کبھی کہا جاتا ہے "فَعْنِي فُلَانٌ قَعْنِيَّةٌ" فلاں کے اندر کبھی ہے۔

قَعْمُوشَةٌ: بچھاڑنا۔ قَعْمُوشُ الْبِنَاءِ: توڑنا۔

تَفَعُّوشُ النِّيْتِ: منہدم ہونا۔

الجِدْعُ: جھلکاؤ۔ الجِدْعُ: غمر سیدھا ہونا۔

قَعْمِيٌّ: بقی بقی بقی بقی بانسہ کا بلند ہونا پھر جھکنا۔ صفت أَقْعَى: مؤنث قَعْوَاءُ۔

أَقْعَى الْكَلْبُ: کتے کا چوڑا پر بیٹھنا۔

أَقْفَةٌ: ناک بلند بانسہ والی ہونا۔ قَوَسَةٌ: گھوڑے کو پھیلے پاؤں لوٹانا۔

قَعَا يَقْعُو قَعْوًا وَقَعْوًا الْفَخْلُ وَالطَّائِرُ: جھتی کرا۔

إِقْتَعَى: جھتی کرنا۔

القَعْوُ: ہمہ۔ کڑی یا لوہے کا دھار جس پر چرخی گھومتی ہے۔ القَعْوَانُ: دو کڑیاں یا لوہے کے جس میں چرخی کا دھار ہوتا ہے۔ ج قَعْمِيٌّ۔

القَعْوَةُ: ران کی جڑ۔ ج قَعْمِيٌّ۔

قَفٌّ (ن) قَفُّوْا الْعَشْبَ أَوْ الشَّجَرَ: گھاس یا درخت کا خشک ہونا۔ قَفَّتِ الْأَرْضُ: خشک پیداوار والی ہونا۔ الشَّجَرُ: روٹ گئے کھڑا ہونا۔

الشَّيْ: سٹنا۔ سکرنا۔ الشُّوبُ: کپڑے کا دھونے کے بعد خشک ہونا۔

الصَّيْرُ قِيٌّ: صرف کا دو انگلیوں کے درمیان دریاہم کو چرانا۔

أَقْفٌ: خشک چراگاہ پانا۔ أَقْفَتِ الدَّجَاجَةُ: مرغ کا انڈے دینے سے زکنا۔ العَيْنُ: آنسو خشک ہونا۔

إِسْتَقْفٌ: سٹنا۔ سکرنا۔

القَفُّ وَالْقَفِيْفُ: خشک سبزی۔

القَفُّ: پستہ قد۔ چیز کا بیرونی حصہ۔ کلباڑی کا سوراخ۔ کلباڑی کے مانند ایک چیز۔ بلند زمین۔

چٹائی زمین سلسلہ وار کہ جس کے درمیان نرم زمین نہ ہو۔ پہاڑ کے مانند سیاہ بادل۔ قَفُّ الْبَيْتِ: کتوں کے ارد گرد کا چوترا۔

مِنْ النَّاسِ: مختلف قسم کے لوگ ج قَفْفٌ وَأَقْفَافٌ۔

القَفَّةُ: خشک درخت۔ خشک کدو۔ کلباڑی کی

مانند ایک چیز۔ بلند زمین۔ بھجور کی پیوں کی

ٹوکری۔ ج قَفْفٌ۔

القَفَّةُ وَالْقَفَّةُ: مِنْ الرِّجَالِ: پستہ قد۔ کمزور۔

القَفَّةُ: خرگوش۔ القَفَّةُ وَالْقَفَّةُ وَالْقَفَّةُ: بخار کی

وجہ سے کبھی۔

القَفَّةُ: اسم نوع۔ نوزائیدہ بچے کا پہلا سنانہ۔

القَفَافُ: صرف جو درہم کو انگلیوں کے

درمیان چرائے۔

القَفَّانُ: امانت دار۔ کہا جاتا ہے "أَتَيْتُهُ عَلَيَّ قَفَّانٌ ذَلِكَ" میں اس کے پاس اس کے پیچھے

پیچھے آیا۔ "وَهَذَا أَقْفَانُهُ" یہ اس کا وقت ہے۔

القَفَّانُ: جماعت۔

قَفْفٌ (س) أَقْفَأَ الْمَكَانُ: بارش یا مٹی پڑ جانے

کی وجہ سے تباہ شدہ پودوں والی ہونا۔

إِقْفَأَ الْحَزْرُ: توشہ دان وغیرہ کی سلائی دوبارہ

کرنا۔

قَفْلٌ: الشَّيْ: جلدی سے لے جانا۔ جڑ سے

اکھینا۔

قَفْحَةٌ (ف) قَفْحًا: تپید کرنا اور چھوڑ دینا۔

الشَّيْ: دوا کی طرح پھانکنا۔ قَفْحَ عَيْنِ

الشَّيْ: باز رہنا۔

القَفِيْحَةُ: کھن جس پر بکری کا دودھ دوبا

جائے۔

قَفْحَةٌ (ف) قَفْحًا وَقَفْحًا: مارنا۔ کھوکھلی یا

خشک چیز یا سر پر ہی مارنے کے لئے استعمال ہے۔

القَفِيْحَةُ: ایک قسم کا کھانا جو چربی اور بھجور

سے بنایا جاتا ہے۔

القَفْحَةُ: گائے جو جھتی کی خواہش مند ہو۔

القَفَاحُ: حساب الاعضاء پر گوشت عورت۔

الْأَقْفَسُ باندی بچہ۔ ہر وہ چیز جو لمبی اور بھلی ہوئی ہو۔ وَعَبْدُ أَقْفَسٍ: کینے غلام۔
الْقَفْصَاءُ: اقس کا مؤنث۔ کینٹی لوٹڈی۔
معدہ یا پست۔

قَفَشٌ (ن ض) قَفْشًا: الطَّعَامُ: بہت حرم سے کھانا۔ الشَّيْءُ: لینا اور جمع کرنا۔
بِالْعَصَاءِ: لاشی سے مارنا۔ النَّاقَةُ: اونٹنی کو تیز دھنا۔
مافی الضرع: دوہ کر جلد ختم کر دینا۔
الْمَرْزَاةُ: بہت جماع کرنا۔
(قَفْشًا وَقَفْشًا) مرنا۔

اِنْقَفَسَ وَاِنْقَفَسَ وَاِنْقَفَسَ الْعَنْكَبُوتُ وَنَحْوُهُ: مگزی وغیرہ کا سمٹ کر بیٹھنا۔
الْقَفْشُ: ہم نشاط۔ چھوٹا چرمی موزہ۔
الْقَفْشُ: چور (الْقَفْشِيلُ) کف گیر۔
قَفَصٌ (ض) قَفْصًا: الطَّيْنُ: ہرن کی ٹانگیں باندھنا۔
الشَّيْءُ: قریب قریب رکھنا۔
الزَّجَلُ: تکلیف دینا۔
الْبَعُشُوبُ: وہاگے سے باندھ کر چھتے میں رکھنا۔
الطَّائِرُ: بچرے میں بند کرنا۔

قَفِصٌ (س) قَفْصًا: پکا پھلکا ہونا۔ سردی سے سن ہونا۔
الفؤش: پورے دوڑے نہ دوڑنا۔ صفت قفص۔

قَفِصٌ: الطَّيْنُ: ہرن کی ٹانگیں باندھنا۔
تَقْفِصٌ: اکٹھا ہونا۔
تَقْفِصٌ: مقلط ہونا۔ اکٹھا ہونا۔

أَقْفَصُ: الزَّجَلُ: بچرے والا ہونا۔
القَفْصُ: بچرہ۔ القَفْصُ: غلہ وغیرہ رکھنے کا برتن۔
أَقْفَاصٌ (س) القَفْصُ وَالْقَفْصُ: مقلط۔

القَافِصَةُ: قاص کا مؤنث۔
ج قَوَائِصُ کینے لوگ۔

القَفَاصُ: پہاڑی بکرا۔ ایک بیماری ہے جو جانوروں کو لاحق ہوتی ہے جس سے ان کی ٹانگیں خشک ہو جاتی ہیں۔

الْمَقْفِصُ: مضم۔ ثوبٌ مَقْفِصٌ: بچرے کی طرح منقش کپڑا۔

الْمَقْفِصُ: شیر۔
قَفْظٌ (ن ض) قَفْظًا: جنتی کرنا۔

القَفَرُ: کم ہال والا۔ بھیرا۔
جُزْ قَفْرًا وَقَفْرًا: بے سالن کی روٹی۔
القَفِيرُ: شہد کا چھتہ۔ نوکری۔ بے سالن کی روٹی۔
ج قَفْرَانٌ۔

القَافُورُ وَالْقَفُورُ وَالْقَفُورَةُ: کھجور کے گھونڈ کا غلاف۔
کما جاتا ہے "أَرْضٌ مَقْفَارٌ" خالی زمین۔
قَفْرٌ (ض) قَفْرًا وَقَفْرَانًا وَقَفْرًا وَقَفُورًا: مرنا۔
القَرْزَالُ: ہرن کا کودنا۔ اچھلا۔ چھلانگ مارنا۔

قَفْرٌ (س) قَفْرًا: الفؤش: گھوڑے کی اگلی ٹانگوں میں گھٹنے تک سفیدی ہونا۔
قَفْرَةٌ: کودنا۔

تَقْفَرُ بِالْحِنَاءِ: مندی سے نقش و نگار کرنا۔
تَقْفَرُ الْقَوْمُ: باہم کودنا۔

القَفْرِيُّ: اچھلا۔ کودنا۔
کما جاتا ہے "عَدَّتِ الْخَيْلُ الْقَفْرِيَّ" یعنی گھوڑے کود کود کر دوڑے۔
القَافِرَةُ: قافو کا مؤنث۔ تیز رفتار گھوڑا۔
میزدک۔ ج قَوَائِرُ۔

القَفِيرِيُّ: ایک پانہ کا نام۔
من الأَرْضِ: ایک سوچا لیس شرعی گز۔
أَقْفَرَةٌ وَقَفْرَانٌ: ایک اقفور و القفقور۔
من الخَيْلِ: اگلی ٹانگ میں گھٹنے تک سفید گھوڑا۔

القَفَّازُ: عورتوں کے ہاتھ بیرون کا زیور۔
دستانہ۔ عوام کفوف کہتے ہیں۔ ج قَفَّافِيْنٌ۔
القَفَّازُ: بہت کوونے والا۔

القَفَّيْرِيُّ: بچوں کا ایک کھیل کہ ککڑی گاڑ کر اس پر کوونے ہیں۔

قَفَسٌ (ن ض) قَفْشًا وَقَفْشًا: مرنا۔
الشَّيْءُ: غصہ سے زبردستی پکڑنا۔
فَلَانًا: بال پکڑنا اور بیچے گھمٹینا۔
قَفَسًا: الطَّيْنُ: ہرن کی ٹانگوں کو باندھ دینا۔
قَفَسًا: جوڑوں کی بیماری والا ہونا۔

قَفَسٌ (س) قَفْشًا: بانسے کے کنارے کا بڑا ہونا۔
تَقْفَسُ: الطَّيْنُ: ہرن کا پھلانگ مارنا۔

تَقْفَسُ الزَّجَلَانُ بِشَعْرٍ هِمَا: ایک دوسرے کے بال پکڑنا۔

القَائِصَةُ: قافس کا مؤنث۔ کینے لوگ۔
قَفَاصٌ: مبنی علی الکسر: کینٹی لوٹڈی۔

القَفَّاجِرُ وَالْقَفَّاجِرِيُّ: بڑے بڑے کا۔
القَفَّاجِرِيُّ: نازک بدن پر گوشت۔

قَفَّدَ (ض) قَفْدًا: کام کرنا۔
کما جاتا ہے "مَا لَبْتُ أَقْدَلِيكَ مَذِي النَّيْمِ" میں آج کے دن سارے کام کر رہا ہوں۔
بگدی پر چھپ رہا۔
بغیر شملہ لکائے ہوئے پکڑی باندھنا۔

قَفَّدَ (س) قَفْدًا: ڈھیل یا موٹی گردن والا ہونا۔
الاقفد: ڈھیل یا موٹی گردن والا۔

بچوں کے بل چلنے والا۔
موٹے ہاتھ پیر چھوٹی نگلیوں والا۔
مؤنث قَفْدَانٌ: قَفْدٌ: کما جاتا ہے "أَعْتَمَّ الْقَفْدَاءُ وَالْقَفْدُ" بغیر شملہ لکائے ہوئے پکڑی باندھی۔

القَفْدَانُ وَالْقَفْدَانَةُ: سرمہ والی کا غلاف۔
چڑے کی تھیلی جس میں خوشبو رکھتے ہیں (دخیل)۔
القَفْدَرُ وَالْقَفْدَرُ: بد صورت۔ بد قوارہ۔
القَفْدَرُ: سخت اور چھوٹے سرو والا۔
پستہ۔

قَفْرٌ (ن) قَفْرًا وَقَفْرًا وَقَفْرًا: اقفور۔
بچیے جانا۔
طاش کرنا۔
اِقْتَفَرُ الْعَظْمُ: بڑی چوڑا۔

قَفِيرٌ (س) قَفْرًا: مائلہ۔ کم ہونا۔
صفت قَفْرٌ: المال۔
الطَّعَامُ: کھانا بغیر سالن کے ہونا۔
قَفْرٌ: التَّوَابُ وَنَحْوُهُ: مٹی وغیرہ جمع کرنا۔
أَقْفَرٌ: بیابان بے آب و گیاہ کی طرف جانا۔

المَكَانُ: گھاس پانی اور آدمی سے خالی ہونا۔

الزَّجَلُ مِنْ أَهْلِهِ: اکیلا ہونا۔

زَامَةٌ مِنَ الشَّغْرِ: سر کا بال سے خالی ہونا۔
بھوکا ہونا۔
بے کھانا ہونا۔
بے سالن ہونا۔
بے سالن کے روٹی کھانا۔
الْبَلْدُ: شہر کو خالی پانا۔
العَظْمُ: بڑی چوڑے صاف کر دینا۔

القَفُورُ: گھاس پانی آدمی سے خالی زمین۔
کما جاتا ہے "أَرْضٌ قَفُورٌ وَأَرْضٌ قَفَارٌ" بے آب و گیاہ چیل میدان۔
"تَوَلَّيْنَا بَيْنِي فَلَانَ فَبَشَا الْقَفُورُ" یعنی ہم بونفلاں میں آترے اور انہوں نے ہماری مسانداری نہیں کی۔
"وَبَاتَ فَلَانٌ الْقَفُورُ وَالْوَحْشُ" یعنی فلاں کی مسانداری نہیں کی۔
گئی۔
القَفُورُ: بیل جو کھیتی کرنے کے لئے ماں سے جدا کر لیا جائے۔

القَفُورُ: ہم۔ بال۔

بِحَبْرٍ بَدَلَهُ دِيَارًا -

الْقَطْطَى وَالْقَيْطُ بِسِتِّ جَمَاعٍ كَرْنَهُ وَاللَّ -

الْمُنْتَقِطُ - مَسْتَحَرَّ -

قَطَطْلَةٌ مِنْ زَيْنٍ يَدْعَى سَائِسَةً أَوْ كَبْكَبًا لِيَا -

قَفْعَةٌ (ف) قَفْعًا بِالمَقْفَعَةِ جَعِي سَارًا -

عَنْ كَذَا مَنَعَ كَرْنَا -

قَفِعَتْ (س) قَفْعًا وَتَقَفَعَتْ الْأُذُنُ كَانِ كَا -

سَكْرًا أَيْ كَانِ كَوْ قَفْعَاءَ أَوْ رَائِي كَانِ وَاللَّ كُو -

أَقْفَعُ كَقَعِي فِيهِ الرَّجُلُ الْكَلْبِيُّونَ كَأَقْدَمِ -

كِي جَانِبِ مَرَا هُوَ هُوَ الشَّاةُ جَعْوِي ذَمِ -

وَالِي هُوَ تَقَفَعُ الشَّيْءُ سَمَا -

قَفَعُ الشَّيْءُ بَرْتَنَ فِيهِ رَكْنًا الْبِزْدُ -

أَصَابَهُ سَرْدِي كَالْكَلْبِيِّونَ كَرْنَا سَكْرًا هُوَ -

كَرْنَا -

إِنْقَعُ النَّبَاتُ بِنَابَاتٍ كَالشَّكِّ أَوْ سَخْتِ هُوَ -

عَنْهُ بَازِرْنَا -

الْقَفْعُ مَعَ أَيْكٍ جَنْجَلِي آلَهُ هُوَ جَسَّ كُو حَصَارِ كِ -

مَوْجِعٍ بِرِ اسْتِمَالِ كَرْتِ تَحْتِ أَوْ رِ اسْ كِ اَنْدَرِ -

وَالْعَلَّ هُوَ كَرْتِ قَلْعِ كِي دِيَارِ سِكِّ بِنَجِّ كَر سَوَارِخِ -

كَرْتِ تَحْتِ وَاحِدِ قَفْعَةٍ -

الْقَفْعُ مَعَ - تَحْتِي - تَحْتَنَ -

الْقَفْعَةُ نَجِي سَ كَشَادِ أَوْ رَكِّ مَنَدِ كُو كَرِي -

جِ قَفْعًا وَ قَفْعَاتٍ -

الْقَفْعَةُ مَذِي دَل -

الْقَفْعُ وَالْقَفْعَاءُ أَيْكٍ بِيَارِي جُو كَبْرِيونَ كُو -

لَا حِنُّ هُوَ هُوَ جَسَّ سِ انْ كِي تَا كَلِي سِي هِي هُوَ -

جَالِي هِي -

الْقَفْعَاءُ أَسْمُ مَبَالِغٍ -

الْقَفْعَاءَةُ أَيْكٍ قَسْمٍ كَالْحِنْدِ أَوْ رِ رِخْتِ خِرْمَا كِي -

شَارِ سَ بِنَاتِي هِي أَوْ رِ اسْ سَ بِرِ نَدُونِ كَالشَّكَارِ -

كَرْتِ هِي -

الْأَقْفَعُ سَكْرَهُ هُوَ كَانِ وَاللَّ سَكْرِي هُوَ كِي -

أَكَلِيونَ وَاللَّ بِيَشِ سَرِ جَمَاعَتِ رَكْنَهُ وَاللَّ جَعْوِي -

ذَمُّ وَاللَّ -

الْقَفْعَاءُ أَقْفَعُ كَامُونْتِ جِ قَفْعُ أَيْكٍ قَسْمِ كِي -

كَمَا سِ جَسَّ فِيهِ الْكُوْشِيُّ كِ مَانِدِ طَلْعِ هُوَ تَحْتِ هِي -

مَرْدُونِ كِنَارِ سَ طِ هُوَ نِي سِ هُوَ تَحْتِ شَاةُ -

قَفْعَاءُ جَعْوِي ذَمُّ وَالِي كَبْرِي -

الْمَقْفَعُ بِيَشِ سَرِ جَمَاعَتِ رَكْنَهُ وَاللَّ رَجُلٌ -

مُقَفِّعُ الْيَدَيْنِ سَكْرَهُ هُوَ هَاتَمُونِ وَاللَّ مَرْدٌ -

الْمَقْفَعَةُ بِأَتَمِّهَا أَيْكِي بِرَارِ كِي كَبْرِي -

قَفَقَفَ قَفَقَمَةً وَتَقَفَقَفَ سَرْدِي وَغَيْرَهُ سَ -

كَانِيَا نَبَاتِ كَالشَّكِّ هُوَ -

قَفَقَمًا الطَّائِرُ بِرِ نَدِ سَ كِ دُونِ بَازِدِ -

قَفَقَمًا الْبَعِيرُ أَوْ شَتِ كِ دُونِ جَزِ سَ -

قَقَلَّ (ن ض) قَقَلًا وَقَقُولًا سَرْدِي لُونَا -

فِي الْجَبَلِ بِبَازِرٍ بِرِ جَمَا - الْأَيْمِي -

الْحِجْدُ أَيْمِي كَالْفُوجِ كُولُونَا الشَّيْءُ اَنْدَرَهُ -

كَرْنَا قَقَلًا الطَّعَامُ كِرَانِي فِيهِ يَنْجِي كِيلِي -

جَمْعُ كَرْنَا -

قَقَلَّ (ض) قَقُولًا الْقَرُوشُ لِأَغْرِ هُوَ - صِفَتِ -

قَاقِلُ الْفَحْلُ جَعْتِي كِيلِي بِبِحَانِ فِيهِ هُوَ -

قَقَلَّ (ن) قَقُولًا وَقَقِلَّ (س) قَقَلًا الْجِلْدُ -

كَمَالِ كَالشَّكِّ هُوَ -

قَقَلَّ الْجِلْدُ كَمَالِ كَالشَّكِّ هُوَ -

الْأَنْبُوبُ دُرُوزَانِ سَ بِنَدِ كَرْنَا تَالَا كَانَا -

أَقَقَلَّ النَّبَابُ وَعَلَى النَّبَابِ دُرُوزَانِ بِرِ تَالَا كَانَا -

النَّبَابُ دُرُوزَانِ سَ بِنَدِ كَرْنَا الْقَوْمُ بِبِحِي سَ -

رِ كِي سَ رِهْنَا أَقَقَلَهُمْ عَنْ مَجْعَبِهِمْ لُونَا -

الْجِلْدُ كَمَالِ كُو شَكِّ كَرْنَا الْمَالُ أَيْكٍ -

هِي مَرْتَبِ فِيهِ سَبَالِ دِيَارِ -

الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِ جَمْعُ كَرْنَا -

الْحَبْرِيشُ فُوجُ كُولُونَا -

تَقَقَلَّ وَانْقَقَلَّ وَانْقَقَلَّ النَّبَابُ دُرُوزَانِ سَ بِنَدِ -

هُوَ تَقَقَلَّ فِي الْجَبَلِ بِبَازِرٍ بِرِ جَمَا -

إِنْقَقَلَّ الْغُرَاةُ عَازِلِيونَ كَالْأَهْلِ هُوَ لُونَا -

الرَّجُلُ جَسَّ كَامِ فِيهِ هُوَ سَ كَرْمَزَانَا -

إِسْتَقَقَلَّ النَّبَابُ دُرُوزَانِ سَ بِنَدِ كَرْنَا -

الرَّجُلُ بَجَلِ كَرْنَا كَمَا جَا هُوَ إِسْتَقَقَلَّتْ يَدَا هُوَ -

فَهُوَ مُسْتَقَقِلٌ أَيْ هِي وَهِي بَجَلِ هُوَ -

الْقُقُلُ مَعَ () وَالْقُقْلَةُ وَالْقُقْلَةُ سَوَكَا -

هُوَ رِ رِخْتِ -

الْقُقْلَةُ سَرَا كَالْحِيْلَا حَتَّةَ مَرْدِي أَيْكٍ هِي مَرْتَبِ -

فِي دِيَارِ كَمَا جَا هُوَ أَعْظَاكُ الْقُقْلَةُ اسْ نِي -

تَمَّ كُو أَيْكٍ بِرَارِ أَيْكٍ هِي مَرْتَبِ دِيَارِ -

الْقُقُلُ تَالَا جِ أَقْقَالٍ وَأَقْقَالٍ وَقَقُولٍ -

الْقُقُلُ مَعَ - اسْمُ جَمْعٍ بِمَعْنَى قَاتِلِهِ -

الْقُقْلَةُ بِرِ سِي هُوَ كِي بِرَارِ كِيلِي دِيَارِ -

الْقَاقِلُ نَابَاتِ كَمَالِ يَابِتَهُ وَاللَّ لُونَسَهُ وَاللَّ -

جِ قَاقِلَةٌ وَقُقَالٌ -

الْقَاقِلَةُ قَاقِلِ كَامُونْتِ كَارُوا سَ - سَرْدِي -

لُونَسَهُ وَاللَّ رِخْتِ يَابِتَهُ سَرْدِي كِيلِي دِيَارِ كِ -

انْ بِرِ جَمِي تَفَاوُلَا قَاتِلِهِ كَالْإِطْلَاقِ هُوَ تَحْتِ جِ -

قَوَاقِلُ حِينِ قَوَاقِلِ دِيَارِ هُوَ -

الْقُقَيْلُ شَكِّ دَرِخْتِ كُوْرَا - شَكِّ كَمَالِ -

جِلْدُ قُقَيْلٍ شَكِّ كَمَالِ -

الْقُقَالُ اسْمُ مَبَالِغٍ -

الْقَيْصَالُ بِأَتَمِّهَا فِيهِ أَيْكٍ رِ كَامِ جَسَّ كِي -

نَصْدِي جَالِي هُوَ -

رَجُلٌ مَقْقَلُ الْيَدَيْنِ وَمُقَقَقِلُهُمَا وَ

مُقَقَقِلُهُمَا جَبَلِ سَجُوسِ آدِي كِ جَسَّ كِ -

بَاتَمُونِ سَ كِي كُو كَبْهَ خِيْرِي سَ هِي نِي سِ -

قَقْلَطَةٌ وَقَقْلَطَةٌ مِنْ يَدِهِ أَيْكٍ لِيَارِ -

قَقْنُ (ن) قَقْنَا مَرْدِي بِرَارِ نَابَاتِ يَا كُوْرَا سَ -

سَ مَارَا الْكَلْبُ كَتَّ كَا مَنَدِ دِيَارِ -

وَأَقَقْنُ وَأَقَقْنُ الشَّاةُ كَبْرِي كُو مَرْدِي كِي -

طَرَفِ سَ زِيغِ كَرْنَا بِبِحَانِ كَرْنَا - صِفَتِ مَفْعُولِي -

قَقْنِيَّةُ -

قَقْنُ (ض) قَقُونَا مَرْنَا -

قَقْنُ زَانَسَهُ سَرَا كَاتِ دِيَارِ -

الْقَقْنُ مَعَ - مَوْتِ - مَقَاتِلِهِ -

الْقَقْنُ وَالْقَقْنُ سَرَا كَالْحِيْلَا حَتَّةَ مَرْدِي -

الْقَقْنُ كُوْرَا -

الْقَقْنُ مَرِوْخْتِ بِدِيَارِ -

الْقَقَانُ أَيْمِنِ - تَوَلَّى كَالْأَيْكِ بِبَارِدِ قَقَانُ كَبْرِي -

شَيْءٍ بِرِ جَمْعِي كِي جَمَاعَتِ - اَنْجَامِ كَارِ - شَاةُ قَقَيْلٍ -

زِيغِ كَرْدِ كَبْرِي -

قَقَا بِقَقُولٍ وَقَقُولٍ الرَّجُلُ مَرْدِي بِرَارِ -

سَرَا حَتَّتِ لُونَا أَوْرَهُ بِرِوِي كَرْنَا اللَّهُ -

أَوْرَهُ مَنَابِتِ - مَحْرُوكَا () وَأَقْقِي وَأَقْقِي -

الرَّجُلُ بِأَمْرِ - مَسْتَحِنُّ كَرْنَا - مَحْمُوسُ كَرْنَا - أَقْقِي -

كَذَا عَلَى كَذَا نَسِيْلَتِ دِيَارِ - اِنْقَفَاءُ - اِتْبَاعِ -

كَرْنَا - وَأَقْقِي الشَّيْءُ اِخْتِيَارِ كَرْنَا - اِنْقَفَى -

بِفُلَانٍ كَسِي كِ سَاتَهُ سَ أَيْكٍ كُو خَاصِ كَرْنَا -

قفی قفیفۃً آنا۔ فلاناً زیداً ویزیداً۔
 پروی کرنا۔ پیچھے چلانا۔ کہا جاتا ہے "قفینث علی
 نوره یفلان" میں نے فلاں کو اس کے نشان قدم
 پر چلایا۔ قفیی علیہ لے جانا۔
 قفقی الزجل: پیچھا کرنا۔ الاحکمة:
 ٹیلے پر چڑھنا۔ الشئی: چنا۔
 یفلان: اکرام کرنے میں مبالغہ کرنا۔
 واستقفی فلاناً بالعصا: پیچھے سے آکر سر پر
 ہاتھی مارنا۔
 تقافی الزجل: جھوٹی تمست لگانا۔
 القوم: ایک دوسرے پر تمست لگانا۔
 القفا والقفا: سر کا پھیلا حصہ۔ گدی۔ مذکر
 ہے اور کبھی مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے ج
 اقف و اقفیة و اقفاء و قفیی و قفیی و قفلن کما
 جاتا ہے "لا اقله قفا الدهر" میں اس کو زمانہ
 بھر نہیں کروں گا۔
 القفوة: غبار جو بارش کی ابتدا میں اٹھتا ہے۔
 کہا جاتا ہے "هو صفوتی و قفوتی" وہ میرا
 برگزیدہ ہے "و بنس القفوة قفونک" اس
 شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس کا انتخاب اچھا نہ
 ہو۔
 القفوة: تمست۔ بڑی بات کی نسبت کرنا۔ گناہ۔
 القفاوة: مہربانی۔ نوازش۔ مہمانی کا اکرام۔
 جس چیز سے مہمان کا اکرام کیا جائے۔ موروثی
 عزت۔
 القفیة: شکاری کا گڑھا جس میں وہ شکاری
 گھات میں جھپٹتا ہے۔
 القفیة: عیب۔
 القفیی: نہایت مہربان۔ مہرم مہمان۔ گھانا جس
 سے مہمان کا اکرام کیا جائے۔ بہترین مہمانی۔ قسم
 مہمانی۔ کہا جاتا ہے "هو قفیتهم و قفیتهم" وہ ان
 کا قائم مقام ہے۔
 القفیة: فضیلت جو تمہیں غیر پر حاصل ہو۔
 گوشہ گھانا جو مہمان کے سامنے رکھا جائے شاة
 قفیتۃ: سر کے پیچھے کی طرف سے ذبح کی ہوئی
 بکری اور کہا جاتا ہے "لا اقله قفیتۃ الدهر"
 یعنی میں زمانہ بھر اس کو نہیں کروں گا۔
 القافیة: گلے کا پھیلا حصہ۔ شعر کا آخری کلمہ یا

آخری حرف ج قواب۔ قافیۃ کمل شئی: ہر چیز کا
 آخری۔ کہا جاتا ہے "اتینتہ علی قافیۃ الشئی"
 میں اس کے پاس فلاں چیز کے پیچھے آیا۔
 الکلام المقفی: وہ کلام جس میں جمع و تانیہ
 ہو۔
 التقفیة: ہم۔ عند الشعراء: اشعار
 میں حرف آخر کا موافق ہونا۔
 المقفیی من الغنیم: گردن کی طرف سے ذبح
 کی ہوئی بکری۔
 زجل مقفے و مقفے بہ: چتا ہوا مرد۔ عزت کیا
 ہو امر۔
 قفے یقفی قفینا الزجل: گدی پر مارنا۔ قہج
 بات کا عیب لگانا۔
 القافلة: الاہلی۔
 القافلی: ایک قسم کی نمکین گھاس جو اشان کے
 مشابہ ہوتی ہے۔
 القوقل: زچکور۔
 القاقم و القاقوم: ایک جانور ہے جو نیولے کی
 شکل کا اور اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کا
 رنگ گرمی میں سرخ سیاہی مائل اور جاڑے میں
 ہست سفید ہوتا ہے۔
 قل (ض) قلاً و قلاً و قلة کم ہونا۔
 الزجل: کم مال والا ہونا۔ الجنس: بدن کا
 ذبلا اور چھوٹا ہونا اور کہا جاتا ہے "هو یقل عن
 کذا" یعنی وہ چھوٹا ہے۔ و قل الشئی: بلند ہونا اور
 کبھی قل کے ساتھ باکانہ لاحق ہوتا ہے جیسے
 "قلنا حیثک" اس صورت میں فعل نہیں رہتا
 اور فاعل کا تقاضا نہیں ہوتا۔ اور قلنا دوسرے کے
 لئے کبھی محض نفی کے لئے اور کبھی تھوڑی سی چیز
 ثابت کرنے کے لئے مستعمل ہے (قللاً)۔
 الشئی: اٹھانا۔ قلہ عن الآرض: بلند کرنا۔
 قلل الشئی: کم کرنا۔ الشئی فی عین
 فلان: پیچ دکھانا۔
 اقل الشئی: کم کرنا۔ الزجل: کم لانا۔ کم
 مال والا ہونا۔ محتاج ہونا۔ الشئی: بلند کرنا۔
 اٹھانا۔ اقلتہ الرخدة: کچی لگانا۔
 قال لہ العطاء: تھوڑا دینا۔
 تقلل الشئی: کم گننا۔ تقلت الشمس:

آفتاب کا بلند ہونا۔
 تقلل الشئی: کم سمجھنا۔
 استقلل الشئی: اٹھانا اور بلند کرنا۔ کم سمجھنا
 الطائر فی طیرایہ: پرندہ کا اڑان میں
 بلند ہونا۔ القوم: کوچ کرنا۔ استقلتہ
 الرخدة: کچوٹا۔ بزایہ: رائے میں متغیر
 ہونا۔ بکذا: ایسا ہونا اور کسی کو شریک نہ
 کرنا۔ فلاناً غصباً: ناراضی کی وجہ سے
 اٹھ جانا۔ بالامر: طاقت رکھنا۔
 السحاب: بادل کا بلند ہونا۔
 القبل: چھوٹی دیوار۔ کچی۔
 القبل و القبل کم۔ من الشئی بکتر۔ کہا
 جاتا ہے "زجل قل" ایسا آدمی "هو قل آین
 قل" وہ غیر معروف ہے "قل زجل" او اقل
 زجل یقول ذلك الا زید" یعنی سوائے زید کے
 کوئی نہیں کہتا۔
 القلة: مرض سے صحت یا حصول دولت۔
 القلة: سر کا یا پاؤں کا یا ہر چیز کا بالائی حصہ۔ لوگوں
 کی جماعت۔ بڑا گھر۔ چھوٹا کوزہ قلة السیف:
 تلوار کے قبضہ کی زیادتی ج قفل و قلال۔
 قلالۃ الخیل: پھاڑی کی چوٹی۔
 القلة: کمی۔ مرض سے صحت یا حصول دولت۔
 کچی۔ ج قفل اور کہا جاتا ہے "زجل طولیل
 القلة" یعنی لمبے قد کا مرد۔ اخذہ بقلیتہ
 یوقلیتہ و یاقلیلہ و یبقلیلہ اس نے سب
 لے لیا و "زحلوا بقلیتہم" وہ سب کوچ کر گئے
 اور اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا۔ و اکل الضب
 بقلیتہ" یعنی گورہ کو کھال و ہڈی سمیت کھا گیا۔
 القلیة: عمارت۔ مشابہ معبد نصاریٰ۔
 القلیل: کم۔ لاخرج قلیلون و اقلء و قلیل
 و قلیلون مؤنث قلیلة ج قلیلات و قلاتیل۔ کہا
 جاتا ہے "زجل قلیل الخیر" مرد کم خیر و
 "قلیل من الرجال یقول ذلک" یعنی اس کو
 کوئی نہیں کہتا۔ "ما اخذت منه قلیلة ولا
 محییزة" میں نے اس سے کچھ نہیں لیا۔ تائے
 نہایت صرف نفی کی صورت میں داخل ہوتی
 ہے۔
 القلال و القلال: کم ج قفل۔ القلال زمین

قلب

سے انگریزی شائش کو اٹھانے کیلئے تھوئی۔
الْقَلْبُ مِنَ النَّاسِ: متفرق لوگ۔
الْأَقْلَبُ: کمتر (مُثْقِلٌ) والمثقل فقیر جس کے پاس کچھ ہو۔

الْقَلْبِيُّ: پست قدرتی۔
قَوْمٌ أَقْلَةٌ: خسیس درجہ کے لوگ۔

المثقل: مفع _____ مِنَ السُّيُوفِ: جس کے بے شمار چاندی بالوں کا ہوا ہو۔

المستقل: فا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ" وہ خود مختار ہے۔

قَلْبٌ (ض) قَلْبُ الشَّيْءِ: پلٹ رہا۔ اوپر کا نیچے کر دیا۔ اندر کا باہر کر دیا _____ الْقَوْمُ: پیچھے رہا۔ لوٹ دیا۔ کہا جاتا ہے "قَلْبُ الْمُعَلِّمِ الصِّبْيَانِ" معلم نے بچوں کو ان کے گھر لوٹا دیا

الْمَجْتَمِعُونَ عَيْتَهُ: غھبٹناک ہونا۔ قَلْبَتِ الشَّرُّهُ: کچی کھجور کا سرخ ہونا۔ قَلْبُ الْأَرْضِ لِلزَّرَاعَةِ: زمین کو جو تاروا کہا جاتا ہے "قَلْبُ الْأَرْضِ ظَهْرُ الْبَطْنِ" اس نے معاملہ کی آزمائش کی۔

قَلْبَةٌ (ن ض) قَلْبًا: دل پر مارنا۔ قَلْبَتِ التَّحَلَّةُ: گودا نکالنا _____ اللَّهُ فَلَانَا إِلَيْهِ: موت دینا۔

قَلْبُ (س) قَلْبًا: اٹنے ہونٹوں والا ہونا۔ صفت أَقْلَبُ: قَلْبَتِ الشَّقَّةُ: اُتھا ہونا۔ صفت قَلْبَاءُ۔

قَلْبُ الْبَعِيْزِ: اونٹ کا دل کی بیماری والا ہونا۔ قَلْبَةٌ: بمعنی قَلْبُهُ اور تشدید مبالغہ یا تکثیر کے لئے ہے۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْتِهِ" وہ تاروم ہونے لگا۔ "وَقَلْبُ الْأُمُورِ" اس نے انجام پر نظر ڈالی۔

أَقْلَبُ الشَّيْءِ: اُلٹ دینا _____ هُ اللَّهُ إِلَيْهِ: موت دینا۔ أَقْلَبُ الْعَنْبُ: انگریز کے اوپر کا حدت خگ ہونا _____ الْعُخْبِرُ: روٹی اٹنے کے قابل ہونا _____ الْقَوْمُ: دل کی بیماری میں مبتلا شدہ اونٹوں کا مالک ہونا۔

تَقَلَّبَ: پلٹنا _____ عَلَى فِرَاشِهِ: کروٹیں لینا۔

فِي الْأُمُورِ: اپنی مرضی سے تصرف کرنا اور کہا

قلب

جاتا ہے "أَنَا اتَّقَلَّبْتُ فِي نَعْمَائِهِ" میں اس کی نعمتوں میں اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہوں۔

انقلب: اُلٹا جانا۔ اوندھانا۔ واپس ہونا۔ القلب: مہ۔ دل۔ عقل۔ قلب الخيش: فوج کا درمیانی حصہ۔ قلب كل شئ: گودا۔ خالص۔ کہا جاتا ہے "حِثُّكَ بِهَذَا الْأَمْرِ قَلْبًا" میں تمہارے پاس محض اس کام کے لئے آیا۔ قلب العقر: منازل قمر میں سے ایک منزل کا نام۔ ج قلب: أفعال القلوب: ظن اور اس کے امثال۔ کہا جاتا ہے "زَجَلْتُ قَلْبًا" یعنی خالص الغلب اور اس میں مذکورہ صفت واحد جمع سب برابر ہیں اور کبھی کہا جاتا ہے "أَمْرًا قَلْبِيًّا"

القلب والغلب والقلب من الشجر: درخت کے اندر کا نرم لوداج أَقْلَابٌ وَقُلُوبٌ وَقَلْبِيَّةٌ: القلْبُ: نکلن۔ سفید ساپ۔ القلْبَةُ: سرخی۔ القلْبِيَّةُ: وہ بیماری جس سے بیمار بچھونے پر تڑپے۔

القَلَابُ: دل کی بیماری۔ القَالِبُ: فا۔ سرخ رنگ کی کچی کھجور۔ کہا جاتا ہے "شَاءَ قَالِبُ اللَّوْنِ" ماں کے مخالف رنگ کی بکری (_____ والقالب) سانچہ۔ موزہ۔ جو تاپانے کا فرم۔ ج قوالب۔

القلب: پلٹنے والا۔ بست اُلٹنے پلٹنے والا۔ کہا جاتا ہے "زَجَلْتُ قَلْبًا" اور "حَوْلِي وَقَلْبِي" یعنی حیلہ کر۔ معاملہ کے اُلٹ پیچھے کرنا۔

القَلْبُ: بست اُلٹنے پلٹنے والا (_____ والقالب) بھینڑا۔ القلبيب: کنواں۔ کنواں بغیر من کا۔ پُرانا کنواں (مذکر اور کبھی مؤنث استعمال کیا جاتا ہے) ج قلب وقلب وأقلبة۔

القَلْبُ وَالقَلْبُ وَالقَلْبُ: بھینڑا۔ شیر۔ المقلب: کھینک کے لئے زمین کو اُلٹنے پلٹنے کا ایک آہنی اوزار۔

المثقل: مہ۔ انقلاب کا اسم ظرف۔ لوٹنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "كُلُّ أَمْرٍ يُصَيِّرُ إِلَى مَقْلَبِهِ" المقلوبة: مفع۔ کان۔ قَلْتُ (س) قَلْتُ: ہلاک ہونا۔

القَلْتُ: ہلاک کرنا۔ أَقَلْتُ: ہلاک کرنا۔ القَلْتُ: چٹان کا گڑھا۔ آگھ کا گڑھا۔ ج قلال: کہا جاتا ہے "طَعْنَةُ فِي قَلْبٍ" خاصیت یہ کہ اس نے اس کے کوکھ کے گڑھے میں نیزہ مارا "وَطَعْنَةُ فِي قَلْبِي تَزْفُوْتِيهِ" اس نے اس کی دو ہڈیوں کے چھ کے گڑھے میں نیزہ مارا۔ مضموع ہر گڑھے کو قلت کہتے ہیں۔

وَزَجَلْتُ قَلْبًا: کم گوشت۔ زبلا پلا مرد۔ القلْبَةُ: دونوں موٹھوں کے درمیان کا گڑھا۔ شَاءَ قَلْبِيًّا: بکری جس کا دودھ بھینڈا ہو۔ المقلبة: ہلاکت۔ خوفناک جگہ۔

المقلات: وہ عورت جس کا پتہ زندہ نہ رہے۔ وہ عورت جس کا ایک پتہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ حاملہ نہ ہو۔ ج مقلات۔

قَلِحٌ (س) قَلِحًا: زرد دانوں والا ہونا۔ قَلِحَتْ أَسْنَانُهُ: دانوں کا زرد ہونا۔ صفت مذکر قَلِحٌ وَأَقْلَحُ: صفت مؤنث قَلِحَةٌ وَأَقْلَحَاءُ: ج قَلِحٌ۔ قَلِحَةٌ: دانوں کو زردی سے صاف کرنا۔ تَقْلَحُ: بیلے کپڑے والا ہونا و تَقْلَحُ الْبِلَادُ: تھک کے زانہ میں شہروں میں کمانی تلاش کرنا۔ القلح: بڑھا کر دھا۔

القلح والقلاح: زردی جو دانوں پر آجاتی ہے۔ القلح: میلا کپڑا۔ الأقلح: زرد دانوں والا۔ گھبرایا۔ زَجَلْتُ قَلْبًا: تجربہ کیا ہوا۔ المقلح: تجربہ کیا ہوا۔ القلحزة: پست قدر کی چال۔ القلحز: موتہ۔ منکبر۔

القلحاس: مردہ صورت۔ بد قولہ۔ اقلح: الزجل: بست بوڑھا ہونا۔ القلح: منکبر۔ بوڑھا۔ شخ: قلحامة: بست بوڑھا۔ قَلِحٌ (ف) قَلِحًا وَقَلِحًا الشجره: درخت

أَقْلَبْتُ: ہلاک کرنا۔ أَقَلْتُ: ہلاک کرنا۔ القَلْتُ: چٹان کا گڑھا۔ آگھ کا گڑھا۔ ج قلال: کہا جاتا ہے "طَعْنَةُ فِي قَلْبٍ" خاصیت یہ کہ اس نے اس کے کوکھ کے گڑھے میں نیزہ مارا "وَطَعْنَةُ فِي قَلْبِي تَزْفُوْتِيهِ" اس نے اس کی دو ہڈیوں کے چھ کے گڑھے میں نیزہ مارا۔ مضموع ہر گڑھے کو قلت کہتے ہیں۔

وَزَجَلْتُ قَلْبًا: کم گوشت۔ زبلا پلا مرد۔ القلْبَةُ: دونوں موٹھوں کے درمیان کا گڑھا۔ شَاءَ قَلْبِيًّا: بکری جس کا دودھ بھینڈا ہو۔ المقلبة: ہلاکت۔ خوفناک جگہ۔

المقلات: وہ عورت جس کا پتہ زندہ نہ رہے۔ وہ عورت جس کا ایک پتہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ حاملہ نہ ہو۔ ج مقلات۔

قَلِحٌ (س) قَلِحًا: زرد دانوں والا ہونا۔ قَلِحَتْ أَسْنَانُهُ: دانوں کا زرد ہونا۔ صفت مذکر قَلِحٌ وَأَقْلَحُ: صفت مؤنث قَلِحَةٌ وَأَقْلَحَاءُ: ج قَلِحٌ۔ قَلِحَةٌ: دانوں کو زردی سے صاف کرنا۔ تَقْلَحُ: بیلے کپڑے والا ہونا و تَقْلَحُ الْبِلَادُ: تھک کے زانہ میں شہروں میں کمانی تلاش کرنا۔ القلح: بڑھا کر دھا۔

القلح والقلاح: زردی جو دانوں پر آجاتی ہے۔ القلح: میلا کپڑا۔ الأقلح: زرد دانوں والا۔ گھبرایا۔ زَجَلْتُ قَلْبًا: تجربہ کیا ہوا۔ المقلح: تجربہ کیا ہوا۔ القلحزة: پست قدر کی چال۔ القلحز: موتہ۔ منکبر۔

قلح

أَقْلَبْتُ: ہلاک کرنا۔ أَقَلْتُ: ہلاک کرنا۔ القَلْتُ: چٹان کا گڑھا۔ آگھ کا گڑھا۔ ج قلال: کہا جاتا ہے "طَعْنَةُ فِي قَلْبٍ" خاصیت یہ کہ اس نے اس کے کوکھ کے گڑھے میں نیزہ مارا "وَطَعْنَةُ فِي قَلْبِي تَزْفُوْتِيهِ" اس نے اس کی دو ہڈیوں کے چھ کے گڑھے میں نیزہ مارا۔ مضموع ہر گڑھے کو قلت کہتے ہیں۔

وَزَجَلْتُ قَلْبًا: کم گوشت۔ زبلا پلا مرد۔ القلْبَةُ: دونوں موٹھوں کے درمیان کا گڑھا۔ شَاءَ قَلْبِيًّا: بکری جس کا دودھ بھینڈا ہو۔ المقلبة: ہلاکت۔ خوفناک جگہ۔

المقلات: وہ عورت جس کا پتہ زندہ نہ رہے۔ وہ عورت جس کا ایک پتہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ حاملہ نہ ہو۔ ج مقلات۔

قَلِحٌ (س) قَلِحًا: زرد دانوں والا ہونا۔ قَلِحَتْ أَسْنَانُهُ: دانوں کا زرد ہونا۔ صفت مذکر قَلِحٌ وَأَقْلَحُ: صفت مؤنث قَلِحَةٌ وَأَقْلَحَاءُ: ج قَلِحٌ۔ قَلِحَةٌ: دانوں کو زردی سے صاف کرنا۔ تَقْلَحُ: بیلے کپڑے والا ہونا و تَقْلَحُ الْبِلَادُ: تھک کے زانہ میں شہروں میں کمانی تلاش کرنا۔ القلح: بڑھا کر دھا۔

القلح والقلاح: زردی جو دانوں پر آجاتی ہے۔ القلح: میلا کپڑا۔ الأقلح: زرد دانوں والا۔ گھبرایا۔ زَجَلْتُ قَلْبًا: تجربہ کیا ہوا۔ المقلح: تجربہ کیا ہوا۔ القلحزة: پست قدر کی چال۔ القلحز: موتہ۔ منکبر۔

القلحاس: مردہ صورت۔ بد قولہ۔ اقلح: الزجل: بست بوڑھا ہونا۔ القلح: منکبر۔ بوڑھا۔ شخ: قلحامة: بست بوڑھا۔ قَلِحٌ (ف) قَلِحًا وَقَلِحًا الشجره: درخت

أَقْلَبْتُ: ہلاک کرنا۔ أَقَلْتُ: ہلاک کرنا۔ القَلْتُ: چٹان کا گڑھا۔ آگھ کا گڑھا۔ ج قلال: کہا جاتا ہے "طَعْنَةُ فِي قَلْبٍ" خاصیت یہ کہ اس نے اس کے کوکھ کے گڑھے میں نیزہ مارا "وَطَعْنَةُ فِي قَلْبِي تَزْفُوْتِيهِ" اس نے اس کی دو ہڈیوں کے چھ کے گڑھے میں نیزہ مارا۔ مضموع ہر گڑھے کو قلت کہتے ہیں۔

وَزَجَلْتُ قَلْبًا: کم گوشت۔ زبلا پلا مرد۔ القلْبَةُ: دونوں موٹھوں کے درمیان کا گڑھا۔ شَاءَ قَلْبِيًّا: بکری جس کا دودھ بھینڈا ہو۔ المقلبة: ہلاکت۔ خوفناک جگہ۔

المقلات: وہ عورت جس کا پتہ زندہ نہ رہے۔ وہ عورت جس کا ایک پتہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ حاملہ نہ ہو۔ ج مقلات۔

قَلِحٌ (س) قَلِحًا: زرد دانوں والا ہونا۔ قَلِحَتْ أَسْنَانُهُ: دانوں کا زرد ہونا۔ صفت مذکر قَلِحٌ وَأَقْلَحُ: صفت مؤنث قَلِحَةٌ وَأَقْلَحَاءُ: ج قَلِحٌ۔ قَلِحَةٌ: دانوں کو زردی سے صاف کرنا۔ تَقْلَحُ: بیلے کپڑے والا ہونا و تَقْلَحُ الْبِلَادُ: تھک کے زانہ میں شہروں میں کمانی تلاش کرنا۔ القلح: بڑھا کر دھا۔

القلح والقلاح: زردی جو دانوں پر آجاتی ہے۔ القلح: میلا کپڑا۔ الأقلح: زرد دانوں والا۔ گھبرایا۔ زَجَلْتُ قَلْبًا: تجربہ کیا ہوا۔ المقلح: تجربہ کیا ہوا۔ القلحزة: پست قدر کی چال۔ القلحز: موتہ۔ منکبر۔

القلحاس: مردہ صورت۔ بد قولہ۔ اقلح: الزجل: بست بوڑھا ہونا۔ القلح: منکبر۔ بوڑھا۔ شخ: قلحامة: بست بوڑھا۔ قَلِحٌ (ف) قَلِحًا وَقَلِحًا الشجره: درخت

أَقْلَبْتُ: ہلاک کرنا۔ أَقَلْتُ: ہلاک کرنا۔ القَلْتُ: چٹان کا گڑھا۔ آگھ کا گڑھا۔ ج قلال: کہا جاتا ہے "طَعْنَةُ فِي قَلْبٍ" خاصیت یہ کہ اس نے اس کے کوکھ کے گڑھے میں نیزہ مارا "وَطَعْنَةُ فِي قَلْبِي تَزْفُوْتِيهِ" اس نے اس کی دو ہڈیوں کے چھ کے گڑھے میں نیزہ مارا۔ مضموع ہر گڑھے کو قلت کہتے ہیں۔

وَزَجَلْتُ قَلْبًا: کم گوشت۔ زبلا پلا مرد۔ القلْبَةُ: دونوں موٹھوں کے درمیان کا گڑھا۔ شَاءَ قَلْبِيًّا: بکری جس کا دودھ بھینڈا ہو۔ المقلبة: ہلاکت۔ خوفناک جگہ۔

المقلات: وہ عورت جس کا پتہ زندہ نہ رہے۔ وہ عورت جس کا ایک پتہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ حاملہ نہ ہو۔ ج مقلات۔

قَلِحٌ (س) قَلِحًا: زرد دانوں والا ہونا۔ قَلِحَتْ أَسْنَانُهُ: دانوں کا زرد ہونا۔ صفت مذکر قَلِحٌ وَأَقْلَحُ: صفت مؤنث قَلِحَةٌ وَأَقْلَحَاءُ: ج قَلِحٌ۔ قَلِحَةٌ: دانوں کو زردی سے صاف کرنا۔ تَقْلَحُ: بیلے کپڑے والا ہونا و تَقْلَحُ الْبِلَادُ: تھک کے زانہ میں شہروں میں کمانی تلاش کرنا۔ القلح: بڑھا کر دھا۔

القلح والقلاح: زردی جو دانوں پر آجاتی ہے۔ القلح: میلا کپڑا۔ الأقلح: زرد دانوں والا۔ گھبرایا۔ زَجَلْتُ قَلْبًا: تجربہ کیا ہوا۔ المقلح: تجربہ کیا ہوا۔ القلحزة: پست قدر کی چال۔ القلحز: موتہ۔ منکبر۔

القلحاس: مردہ صورت۔ بد قولہ۔ اقلح: الزجل: بست بوڑھا ہونا۔ القلح: منکبر۔ بوڑھا۔ شخ: قلحامة: بست بوڑھا۔ قَلِحٌ (ف) قَلِحًا وَقَلِحًا الشجره: درخت

اکھاڑا۔

قَلَحَ (ف) قَلَحًا وَقَلِيحًا وَقَلَاخًا التَّبَعِيْرُ :
اُونٹ کا بڑھانا۔

قَلَحَهُ بِالسُّوْطِ : کوڑا مارنا۔ قَلَحَ الثَّبْتُ :
نبات کا سخت ہونا۔

القَلْحُ : دم کھوکھلا۔ نرکل پانس۔ بوڑھا گدھا۔
القَلْحُ : بڑے سروالا۔

القَلْحُ : بڑے کوہاں کا موٹا اونٹ۔
قَلَدَ (ض) قَلَدًا الحَبْلُ : رستی بنا

القَلْحُ : لوہے کو پاریک کرنا اور کسی چیز پر
موڑنا۔ الزَّجْلُ السَّيْفِ : تلوار کو حمال
کرنا۔

القَلْحُ : المَاءُ فِي الحَوْضِ او السَّرَابِ فِي
النَّظْمِ : جمع کرنا۔ الزَّرْعُ : کھیتی سیراب
کرنا۔ الشَّيْءُ : موڑنا۔ الحُمَى فَلَانًا :

بخار ہر روز آنا۔
قَلَدَهُ السَّيْفُ : گلے میں تلوار کا پر تل ڈالنا۔

القَلَادَةُ : ہار پستانا۔ هالعَصَلُ : کام
سپرد کرنا۔ هالذَيْنِ : قرض سوئپ دینا۔ قَلَدَ

التَّبَعِيْرُ : اونٹ کی گردن میں کھینچنے کیلئے پٹہ ڈالنا۔
قَلَدْنَا القَضَاءَ فِي بَلَدٍ كَذَا : قاض بنانا۔

قَلَدْنَا القَضَاءَ فِي بَلَدٍ كَذَا : قاض بنانا۔
قَلَدْنَا فِي كَذَا : اس نے اس کی فلاں بات میں
بغیر غور و فکر کے بیروی کی۔

قَلَدْنَا البَحْرَ عَلَيْهِم : غرق کر دیا۔ ڈوب دینا۔
تَقَلَّدَتِ المَرْأَةُ القَلَادَةَ : عورت کا ہار پستانا۔

تَقَلَّدَ الأَمْرَ : ذمہ دار ہونا۔ برداشت کرنا۔
السَّيْفُ : گلے میں تلوار کا پر تل ڈالنا۔

تَقَلَّدَ القَوْمَ المَاءَ : پانی پر پاری پاری آنا۔
اِقْتَلَدَ المَاءَ : پانی کا چلو لینا۔

اِقْتَلَدَ النِّعَاشَ فَلَانًا : نیند کا غالب آنا۔
القَلْدُ : دم سے تھج دیا ہوا۔ شمشا ہوا گلن۔ کہا جاتا

ہے "سَوَّارٌ قَلْدٌ" رستی پر بیٹھی ہوئی رستی۔ ج
أَفْلَادُ قَلْدٍ :

القَلْدُ : بخاری باری کا دن۔ چوتھا بخار کا دن۔
پانی کا حصہ۔ جماعت۔ ہر ہفتے کی بارش۔ کہا جاتا

ہے "سَقَفْنَا السَّمَاءَ قَلْدًا فِي كُلِّ أَسْبُوعٍ"
یعنی ہم ہر ہفتے میں بارش ہوئی۔ بڑے پیالہ کے

مشابہ ج أَفْلَادٍ۔ کہا جاتا ہے "أَعْطَيْنَهُ قَلْدًا
أَمْوِي" میں نے اپنے مغلہ کو دروست اس کے

سپرد کر دیا۔
القَلْدَةُ : کھی کا تلخت۔ بھجور۔

القَلْدَةُ : دونوں مونجھوں کے درمیان گڑھا۔
القَلَادُ وَالْإَقْلِيدُ : انگوٹھی یا ہالی کے گرد لپیٹنے

کے لئے پیتل یا تانبے کا تار۔
القَلَادَةُ : ہار۔ مالا۔ ج قَلَائِدُ وَ قَلَادٍ۔ چھ

ستارے جن کو قوس بھی کہتے ہیں۔ قَلَائِدُ
الشُّعْرِ : اشعار جو نفاست کی بنا پر یاد کے جائیں اور

م محفوظ رکھے جائیں۔
القَلْوُدُ : بست پانی والا کتواں۔

القَلِيدُ وَالْمَقْلُوْدُ : بنا ہوا۔
القَلِيدُ وَالْمَقْلَادُ : خزانہ۔

التَّقْلِيْدُ : دم۔ ج تقَالِيدُ وَ تَقْلِيْدَاتُ التَّقَالِيْدِ
عِنْدَ التَّنْضَايِ : نصرائوں کی سینہ بہ سینہ مذہبی

باتیں۔ اور تھلید کا اطلاق اس فرمان شای پر بھی
ہوتا ہے جو بیروی حکم کیلئے جاری ہوتا ہے۔

الإِقْلِيدُ ج قَالِيدٍ : المَقْلُدُ ج مَقَالِيدٍ۔
والمَقْلَادُ ج مَقَالِيدٍ : کھچی۔ کہا جاتا ہے

"صَاعَتٌ مَقَالِيدٌ او مَقَالِيدٌ" اس کے اوپر اس
کے معاملات تک ہو گئے "وَأَلْقَى إِلَيْهِ مَقَالِيدَ

الأَمْوَرِ" اس نے اپنے امور اسے سوئپ دینے
المَقْلُدُ : برتن۔ توبہ۔ پیانہ۔ ٹیڑھے سر کی

چھتری۔
المَقْلُدُ : خم۔ سردار قوم۔ آگے بڑھنے والا

گھوڑا۔ ہار پینے کی جگہ۔ مونڈھوں پر پر تل ڈالنے
کی جگہ۔ مَقْلُدَاتُ الشُّعْرِ : اشعار جو نفاست کی بنا

پر یاد کے جائیں اور محفوظ رکھے جائیں۔
القَلْدُ : ایک کینڑا ہے چوپاؤں کو چمٹ جاتا ہے اور

ان کی موت تک جدا نہیں ہوتا۔
القَلِيدُ : بست پانی والا کتواں۔

قَلْدَةٌ (ان ض) قَلْدًا : مارنا۔ قَلْدَ الأَرْضِ
بِعَصَاهُ : کرینا۔ بِسَهْمِهِ : تیر چھینکنا

بِقَيْتِهِ : اُلٹی کرنا۔ الزَّجْلُ : پینا۔
چست ہونا۔ کودنا۔ لنگرانا۔ هالماء : گھونٹ

گھونٹ پلانا۔
(قَلْدٌ وَ اَقْلَرٌ) الحَزَاذُ : انڈے دینے کے

لئے دم کو زمین پر مارنا۔

تَقَلَّدَ : چست ہونا۔ الوَحْلُ : پاڑی
بکری کا دوڑنا۔

اِقْتَلَزَ الكَاسَ : گھونٹ گھونٹ لینا۔
القَلْدُ : مِنَ الرِّجَالِ : ہلکا چھٹکا کمزور مرد۔

القَلْدُ وَ القَلْدُ : سخت تانبا کہ جس کو لوہا کا ٹنڈ
کے۔ مَغْبُوطٌ : مَوْنٌ قَلْدَةٌ وَ قَلْدَةٌ۔

قَلْدَرٌ وَ تَقَلْدَرٌ الشَّيْءُ : لگانا۔ تَقَلْدَرٌ الزَّجْلُ :
کھجوری کی وجہ سے مرنا۔

القَلْدُ : کمینہ۔
القَلْدُ : مہر اور تگہ کے درمیان ایک شہر کا نام

اور اسی کے نام پر بحر قلم ہے۔
القَلْدَةُ : دم۔ کمینہ۔ پن۔ شور۔

قَلَسَ (ض) قَلَسًا وَ قَلَسَانًا : کھانا پانی کا پیٹ
سے منہ تک آنا۔ بست شراب پینا۔

نَفَسُهُ : جی حٹلانا۔ الكَاسُ بِالشَّرَابِ :
چمک پڑنا۔ الإِنَاءُ : بھر پڑنا۔

التَّحْلُ : العَسَلُ : شہد پنانا۔ السَّحَابَةُ
بِالْبَدْيِ : جھلا پڑنا۔ الزَّجْلُ : گانے میں

ناچنا۔ عمہ گانا۔
قَلَسَ : دف بجانا اور گانا۔ سمجھ کرنا۔

القَوْمُ : گا بجا کر اور کھیل کود سے بادشاہوں کا
استقبال کرنا۔ لَهُ : سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھ کو

آکساری ظاہر کرنا۔ الزَّجْلُ : ٹوپی پستانا۔
تَقَلَسَ : ٹوپی پستانا۔

القَلَسُ : دم۔ کشتی و جہاز کی موٹی رستی۔ ج
قَلْوَسٌ وَ أَقْلَاسٌ : القَلَسُ : بد بھنسی کی وجہ سے

کھانا پانی جو منہ تک آئے۔ قَلَسَ البَحْرُ :
بادل۔

القَالِسُ : وہ شخص جس کے منہ تک بد بھنسی
کی وجہ سے کھانا پانی آجائے۔

القَالَسُ : اسم مبالغہ۔ ٹوپی بنانے والا۔ بَحْرُ
قَلَاسٌ : زیادہ جھاک چھینکنے والا سمندر۔

القَالِيسُ : شہد۔ شہد کی بھنسی۔
قَلَسَى الزَّجْلُ : ٹوپی پستانا۔

تَقَلَسَى قَلَسِيًّا : ٹوپی پستانا۔
الْأَقْلَيسُ وَالْإِنْقَالِيسُ : ایک قسم کی مچھلی جو

سنگ کے مانند ہوتی ہے۔ بام مچھلی۔

قلص

قلط + قلع

قلع

۶۷۲

القلع۔ بخار کے اترنے کا دن۔ مردوں کے پسنے کی صدی۔ وہ شخص جو گھوڑے پر اچھی طرح نہ بیٹھ سکے۔

القلع۔ چلنے میں قوی مرد۔
القلع۔ مہ۔ خون۔ کھرنڈ جو کھلی دالے کے جسم پر ہو۔ پتھر جو چٹان کے نیچے ہو۔ من الحصى۔ بخار اترنے کا دن۔

القلع۔ جو حملہ میں یازن پر قائم نہ رہ سکے۔ کند ذہن جو کلام کو نہ سمجھے۔ کھرنڈ والے۔ و شیع قلع۔ کھڑے ہونے کی حالت میں آگے کو جھکنے والا بڑھا۔

القلعة۔ قلعة۔ ج قلاع و قلعع۔ القلعة: کھجور کا چھوٹا پودہ جو کھجور کی جڑ سے اُکھیرا جائے۔ جروا ہے کاوشہ دان۔

القلعة۔ قلع کا اسم نوع۔ لہذا چھوٹا کھجور۔ ج قلع۔

القلعة۔ کھرنڈ والا۔ کمزور جو کشتی میں جلد مغلوب ہو جائے۔ بیٹھ نہ رہنے والا مال، مگنی کا مال اور خست سے جو اُکھیرا جائے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَى قَلْعَةٍ" وہ سفر ہے "وَمَنْزِلُنَا مَنْزِلُ قَلْعَةٍ وَقَلْعَةٍ وَقَلْعَةٍ" یعنی ہم مالک نہیں و "هَذَا الْمَنْزِلُ مَنْزِلُ قَلْعَةٍ" یعنی جب کوئی صاحب عزت آدمی آجاتا ہے تو بیٹھنے والے کو ہانا یا بار بار اُٹھاندا ہے۔

القلعة۔ بڑا میلہ۔ قلعة۔ بادل کا پہاڑ جیسا کھڑا۔ ج قلع۔ چٹان جو پہاڑ سے جدا ہوگی ہو اور درخوار گزار ہو۔ ج قلاع و قلع۔

القلعة۔ کھرنڈ والا۔
القلع۔ جو خشک ہونے کے بعد بچنی ہوئی مٹی پھنسیاں۔ جو فندہ یا زبان پر ہوں۔ واحد قلاعة القلاع: مٹی جو خشک ہونے کے بعد چٹ جائے اور اس کے نیچے سانپ کی چھتری ہو۔ قلاغ الأذن: کان کی جڑ میں شگاف کہ جس سے پیپ وغیرہ نکلے۔ للقلاعة: پتھر یا ڈھیلہ جو پھینکنے کے لئے زمین سے اُکھیرا جائے۔ کہا جاتا ہے "زُمِي بِقِلاَعَةٍ" یعنی لہجہ خوب کر دیا گیا۔ القلاعة: کشتی و جہاز کا بولہ۔

القلع۔ وہ شخص جو حملہ میں یازن پر قائم نہ

الثلوق: گرمی کے زمانہ میں موٹی ہونے والی اونٹنی۔

فَرَسٌ مُقْلَبٌ: بسنی ٹانگوں والا گھوڑا۔
قَلَطَ (ان) قَلَطًا: بد صورت ہوا۔
القلط: جن کے نیچے شیطان کے نیچے۔
القلطي والقينيط: مرد خمیٹ، سرکش (و القلاط) بہت پست قدم آدمی ہو یا بیلی یا کتا۔
القليط: خمیہ میں سو جن۔

القيلطو والقينيط: خمیہ میں سو جن والا۔
القلطيان: بیوی کے بارے میں غیرت نہ رکھنے والا۔ بھڑوا۔

قَلَعَ (ف) قَلَعًا وَقَلَعَ: اِقْتَلَعَ الشَّيْءُ: جڑ سے اُکھیرنا۔ قَلَعَ الوَالِي فُلَانًا: معزول کرنا۔ اِقْتَلَعَ الشَّيْءُ: چھیننا۔

قَلَعَ (س) قَلَعًا وَقَلَعَ: اَلْوَاكِبُ: سوار کارین پر جم کر نہ بیٹھنا۔ الرَّجُلُ: کند ذہن کی وجہ سے کلام کو نہ سمجھنا۔ المصارع: کشتی کے وقت قدم ثابت نہ رہنا۔

قَلَعَ قَلْعًا: الرَّجُلُ: حملہ میں ثابت نہ رہنا۔
زین پر جم کر نہ بیٹھنا۔
أَقْلَعَ عَنْ كَذَا: باز رہنا اور چھوڑنا۔
الملاخ السفينة: بادبان اٹھانا۔
أصحاب السفينة: روانہ ہونا۔ الشئ: روشن ہونا۔
الأمير: قلعة بنانا۔
الحصى عن فلان: بخار کا اترنا۔ قرآن مجید میں ہے "يَا مَسْمَاءُ اقلعي" یعنی اے آسمان بارش سے رک جا۔

قَالَعًا مَقَالَعَةً: ایک دوسرے کو اُکھیرنا۔
تَقَلَّعَ وَانْقَلَعَ وَاقْتَلَعَ: جڑ سے اُکھیرنا۔ تَقَلَّعَ فِي مَشْيِهِ: آگے کو جھکنے ہوئے چلنا۔

القلع۔ مہ۔ بسول۔ جروا ہے کا تھیلہ۔ ج قلع و قلعع۔ قلع الحصى: بخار اترنے کا دن۔ کہا جاتا ہے: "تَزَكُّنُهُ فِي قَلَعٍ وَقَلَعٍ وَقَلَعٍ مِنْ حُمَاهُ" میں نے اس کو بخار اترتی ہوئی حالت میں چھوڑا۔ الفلع کان جس کی طرف عمدہ رنگ کو منسوب کرتے تھے کہتے تھے "وَصَاحُ قَلْعِي" و قَلْعِي"۔
القلع۔ بادبان۔ ج قلعع و قلاع۔

القلاش۔ چھوٹا۔ سگڑا ہوا۔
القلاشة۔ کوٹاہی۔ چھوٹا پن۔

القلاش والاقش۔ حیلہ گر (دخیل)
قَلَصَ (ض) قَلَصًا: الرَّجُلُ: کوٹا۔
القوم: اکٹھا ہو کر چلنا۔ القوم عن الدار: ہلکا چلنا ہونا اور اکٹھا ہو کر چلنے کا وقت آنا۔

الماء: پانی کا ختم ہونا۔ البئر: اوپر تک چرھنا۔ الظل عن كذا: سایہ کا سمٹ آنا۔ صفت قايص: الثوب بعد الغسل: کپڑے کا سگڑنا۔ الغلام: جوان ہونا۔ الشفة: ہونٹ کا اوپر کو سگڑنا۔

قَلَصَتْ (ض) قَلَصًا وَقَلَصَتْ (س) قَلَصًا: نَفْسُهُ: جی مثلاً۔

قَلَصَ قَمِيصُهُ فَقَلَصَ هُوَ: سینا۔ سننا۔ لازم و متعدی۔ قَلَصَتْ الدرعُ: زرہ کا چست ہونا۔ التافة بواکبها: اونٹنی کا سوار کو لے کر تیز دوڑنا۔ دوڑے جانا۔ القوم: اونٹنیوں پر سوار ہونا۔

أَقْلَصَ البعيرُ: کوہان کا کچھ ظاہر ہونا۔
التافة: گرمی میں موٹی ہونا۔

تَقَلَّصَ: اکٹھا ہونا۔ سگڑنا۔ قریب قریب ہونا۔
القلاصة: پانی جو کونوں میں بکھرتا جمع ہو کر ختم ہو جائے۔ ج قلص و قلاصات۔ اور کہا جاتا ہے "مَا وَجَدْتُ فِي البئرِ إِلَّا قَلَصَةً مِنَ المَاءِ" کونوں میں میں نے صرف تھوڑا سا پانی پایا۔

القلوص من الإبل: بسنی ٹانگوں والی اونٹنی۔ جوان اونٹنی یا چلتی ہوئی اونٹنی۔ اونٹنی جس پر پہلی مرتبہ سواری کی جائے۔ ج قلاص و قلاص و قلاص و قلاصان۔ القلوص مادہ شتر مرغ۔ شتر مرغ کا دارہ پتہ۔ شوات کا پتہ۔ جوان لڑکی۔ جاری شتر جس میں گندگی وغیرہ بہہ کر جاتی ہے۔

القليص۔ بہت۔ من المية: ختم ہونے والا پانی۔
القلاص من المية: ختم ہونے والا پانی۔
اونٹنی کو روکنے والا۔
الجفلاص۔ اونٹنی کو روکنے والا۔

رہ کے۔ بڑا جموتا۔ داڑھ اکھیرنے والا۔ بادشاہوں کے پاس چغلی کھانے والا۔ سپاہی۔ سپہ سالار۔ کفن چور۔

الْقَلْوَعُ: بڑی اونٹنی۔ کمان جو کھینچنے میں اٹ جائے۔ ج۔ قَلْع۔

إِفْلَاحُ الْحَشِيِّ وَمُقْلَعُهَا: بخار کا اترنا۔

الْمُقْلَعُ: پتھر اکھیرنے کی جگہ۔ ج۔ مَقَالِيعُ۔

الْمِقْلَاعُ: گوجھن۔ ج۔ مَقَالِيعُ۔

الْقَيْلَعُ: بڑے پاؤں والی بڑے ذیل ڈول کی عورت۔

إِقْلَعَتِ الشَّعْرُ: بال سخت گھٹھکھیرالے ہونا۔

تَقْلَعْتُ فِي مَثَبِهِ: اس طرح چلنا کہ گویا کچھڑ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔

إِقْلَعْتُ الشَّعْرُ: بال کا سخت گھٹھکھیرالے ہونا۔

فُلَانٌ: خود سری کے ساتھ جانا۔

إِقْلَعْتُ الشَّعْرُ: بال گھٹھکھیرالے اور سخت ہونا۔

الْمُقْلِعُ: نا۔ خوفزدہ بھاگنے والا۔ سخت گھٹھکھیرالے بال والا سر۔

إِقْلَعْتُ الشَّيْءَ: سنا۔ اَنَا مِثْلُ فُلَانٍ: سردی یا بڑھاپے کی وجہ سے بھری دار ہونا۔

الْقَالِعَةُ: بالوں کا سخت گھٹھکھیرا لاپن۔

قَلَفٌ (ض) قَلَفًا الشَّجَرَةَ: درخت سے چھال اُتارنا۔ الشَّيْءُ: پلٹنا۔

وَاقْتَلَفَ (الظُّفْرُ): جڑ سے کاٹ لینا۔ قَلَفٌ العَصِيْبُ: جھاگ لانا۔

قَلَفٌ (ن) قَلَفًا: القُلْفَةُ: کاٹنا۔

قَلَفٌ (ض) قَلَفًا وَقَلْفَةَ الدِّينِ: ملنے کے سرے پر کی مٹی چھڑانا۔ (قَلَفٌ وَقَلْفٌ) السَّيْفِيَّةُ: کشتی کے تختوں کو درخت خرما کی چھال سے جوڑنا اور ان کے درمیان تار کو ل ڈالنا۔ اسم القلافة ہے وَقَلْفُ الجَزْوَرِ: کٹوے کٹوے کرنا۔

قَلَفٌ (س) قَلَفًا الصَّبِيْبُ: بے خند ہونا یا عضو تناسل کی کھال کا بڑا ہونا۔ صفت أَقْلَفٌ۔

تَقْلَعُ القَبْشُ عَنِ الشَّجَرَةِ: درخت سے چھال کا اترنا۔

إِنْقَلَبَتِ السَّرَّةُ: ناف کا موٹائی کی وجہ سے

لوٹ جانا۔

القَيْلَفُ: درخت کی چھال۔ واحد قَيْلَفَةٌ سخت جگہ۔

القَيْلَفَةُ: ناخن جڑ سے کٹا ہوا۔

القَيْلَفَةُ وَالقَيْلَفَةُ: عضو تناسل کی کھال۔ ج۔ قَلْف۔

القَيْلَفَةُ مِنَ الشَّقَاةِ: بھونٹ۔ جس میں موٹائی ہو۔

القَيْلَفَةُ: درخت وغیرہ کی چھال۔

القَيْلِفُ ج قَلْفٌ وَالقَيْلِفَةُ ج قَلَيْفٌ وَالْمَقْلُوْفَةُ ج مَقْلُوْفَاتٌ: کھجور رکھنے کا بڑا ٹوکرا۔

القَيْلِفُ وَالْمَقْلُوْفَةُ: مٹکا جس کے سرے سے مٹی چھڑا دی گئی ہو۔ القَيْلِفُ: خشک میوہ۔ دریائی کھجور جس کا چھلکا اُتر گیا ہو۔ کھجور کا بڑا ٹوکرا۔ واحد قَيْلِفَةٌ۔

الْأَقْلَفُ: بے خند۔ عضو تناسل کی بڑی کھال والا۔ مؤنث قَلْفَاءُ ج قَلْفٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ أَقْلَفُ القَلْبِ" وہ اچھی باتوں کو نہیں قبول کرتا۔ "عَامٌ أَقْلَفٌ" سرسبز سال "عَيْشٌ أَقْلَفٌ" خوش حال زندگی۔

التَّقْلِيْفُ: کھجور سے گھٹھلی جدا کرنا اور برتن میں ذخیرہ کرنا۔

قَلْفَخٌ: الظَّعَامُ: سب کچھ کھالینا۔

تَقْلَعُ عَنَهُ الشَّيْءُ: چھل جانا۔

القَيْلَعُ وَالقَيْلَعُ: خشک کچھڑ کا پھٹا ہوا ٹوکرا۔ لوہے کے زرات جو ڈھالے وقت گریں۔

القلفعة: سانپ کی چھتری۔ زمین کی مٹی جو سانپ کی چھتری کے اُگنے سے ہٹ جائے۔ اونٹ کی کھال پر چھال کی مانند داغ۔

قَلِقٌ (س) قَلْفًا: مضطرب ہونا۔ بے قرار ہونا۔ صفت مذکر قَلِقٌ وَقَلِقَاتٌ: صفت مؤنث قَلْفَةٌ وَقَلِقَاتٌ۔

قَلِقٌ (ن) قَلْفًا الشَّيْءَ: حرکت دینا۔

أَقْلَعُ: بے قرار کرنا۔ أَقْلَعُ الشَّيْءَ مِنْ مَكَانِهِ: حرکت دینا۔ القَوْمُ السَّيْرُوفُ فِي العَيْدِ: آسانی کیلئے گوارا کو میان ہی میں حرکت دینا۔

القَلْقَاسُ: اروی۔

قَلْقَلٌ قَلْقَلَةً: نماز نکالنا۔ (قَلْقَلَةً

وَقَلْقَالًا وَقَلْقَالًا الشَّيْءَ: حرکت دینا۔ الحُزْنُ وَمَعَهُ: آنسو بہانا۔ فِي الأَرْضِ: سفر کرنا۔ تَقْلَعَلٌ: متحرک ہونا۔ بُلْکَا ہونا اور تیز دوڑنا۔ فِي البِلَادِ: ملک میں پھرنا۔

القَيْلِفُ وَالقَلْقَلَانُ: ایک درخت ہے جو آثار کے مشابہ ہوتا ہے اور جس کا پھل کالے رنگ کا چمکا گول کلی مرچ کے برابر ہوتا ہے۔

حروف القَلْقَلَةِ پانچ حروف ہیں۔

بُحٌ وَطَلَقٌ۔

القَلْقَالُ: بیٹھ سفر کرنے والا۔

القَلْقَالُ وَالقَلْقَالُ: پھرتا مڑکا۔ القَلْقَالُ: سفر میں ہلکا پھلکا۔

قَلَمٌ (ض) قَلَمًا وَقَلَمٌ الشَّيْءَ: کاٹنا۔

الظُّفْرُ: ناخن تراشنا۔ قَلَمٌ: تھوڑا تھوڑا کاٹنا۔

القَلَمُ: قلم۔ قلم کا اطلاق بن جانے کے بعد سے بننے سے پہلے قَضْبَةٌ اور یرواعہ کہتے ہیں۔

القَلَمُ: جوئے کا تیر۔ تیر جو جواریوں کے درمیان گھمایا جاتا ہے۔ ج۔ أَقْلَامٌ وَقَلَامٌ۔

القَالِمُ: نا۔ جس کے بیوی نہ ہو۔ ج۔ قَلَمَةٌ۔

القَلَامَةُ: تراش۔ قَلَامَةُ الظُّفْرِ: ناخن کا تراش۔ اور اس سے گھٹیا اور تھیر تھیر کی تشبیہ دی جاتی ہے۔

الإِقْلِيمُ: ملک۔ صوبہ۔ ربع مسکون کا ساتواں حصہ۔ ج۔ أَقْلِيمٌ (ذخیل)

المِقْلَمَةُ: قلم دان۔ ج۔ مَقَالِمٌ۔

مَقَالِمٌ الرُّومِ: نیزے کی گریں۔

المِقْلَمَةُ: یہ عورت اور کہا جاتا ہے "سَارَتِ أَلْفٌ مِقْلَمَةً" یعنی ہزار سپاہیوں کی ہتھیار بند فوج روانہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ مَقْلُومٌ الظُّفْرِ وَمَقْلَمٌ الظُّفْرِ" یعنی ضعیف و ذلیل ہے۔

المِقْلَامُ: تھیر۔

القَلَمَسُ: بست پانی والا کنواں۔ بست فیاض۔

دورانہ پیش۔ ہو شیار۔ تیر معروف۔

قَلَمْعٌ رَاةٌ: سر پر مارا کھدا کرنا۔ موڑنا۔

الشَّيْءَ: جڑ سے اکھیرنا۔

قلن + قلی

قما

قمح

۶۷۳

وَقَمْوَةٌ وَقَمَاءٌ وَقَمَاءٌ وَقَمَاءٌ: الماشية: جانور کا موٹا ہونا۔ اقامت کرنا اور موٹا ہونا۔
 الْقَمَاءُ الزَّجْلُ: ذیل کرنا۔ الشُّئُ او المکان فَلَانًا: تجب میں ڈالنا اقامت الماشية: جانور کا موٹا ہونا۔
 قَامَاءَةٌ مَقَامَاءَةٌ: موانعت کرنا۔ کہا جاتا ہے مَا قَامَاءَةٌ الْمَكَانِ: جگہ اس کو موافق نہیں آئی۔
 تَقَمَّأَ فَلَانًا الْمَكَانِ: موافق ہونا اور اقامت کرنا۔ الشُّئُ: جانور توڑا جمع کرنا۔ عمدہ لیتا۔
 اِقْتَمَّ الشُّئُ: جمع کرنا۔
 الْقَمَّءُ: وہ جگہ جہاں اقامت کریں اور موٹے ہو جائیں۔
 الْقَمَاءَةُ: جمع قَمَاءٌ وَالْمَقْمَاءَةُ وَالْمَقْمُوءَةُ وہ جگہ جہاں دھوپ نہ بیچے۔
 الْقَمَّاءُ وَالْقَمَّاءُ: سرسبزی۔ آرام۔
 الْقَمِيئُ: ذیل و خوار۔
 الْقَمِيئُفَلُ: بڑی چال چلنے والا۔
 قَمَّحٌ (ن) قَمْوَحًا وَقَمَّحٌ وَقَمَّحٌ وَالْقَمَّحُ الْبَيْتِيُّ: سیرابی کی وجہ سے پینے سے باز رہنا اور سر اٹھانا صفت قَامِحٌ ج قَمَّاحٌ وَقَمَّحٌ وَقَمَّحٌ الشَّرَابِ وَمِنْ الشَّرَابِ: ناپسند کرنا۔
 قَمَّحٌ (س) قَمَّحًا وَالْقَمَّحُ وَالْقَمَّحُ وَالْقَمَّحُ السَّوِيْقُ سَتُو جَمَاعَتَا الشَّرَابِ: پھل پر لیتا اور چھاتا۔
 قَمَّحٌ فَلَانًا: حق سے کم دے کر مٹانا۔
 الْقَمَّحُ السُّبُلُ: خوشہ میں دانہ بیٹھنا۔
 الْبِيْزُ: تیار گیہوں ہونا۔ الزَّجْلُ: سر اٹھانا اور آنکھ بند کرنا۔ بَانْفِيْهِ: بڑائی جتنا۔
 مَشْرُورٌ ہونا۔ الْعُلُ الْأَمِيْزُ: کھجکی کی وجہ سے سر کو کھلا ہوا چھوڑنا۔ فَلَانًا: شراب پینا۔
 الْقَمَّحُ: گیہوں۔ وَاوَدَّ قَمَّحَةً: القَمَّحَةُ: پھل یا پانی سے منہ بھرا ہوا۔
 () وَالْقَمَّحَانُ وَالْقَمَّحَانُ: از عفران۔
 الْقَمَّحَانَةُ: سر کے پچھلے حصہ میں اٹھی ہوئی جگہ اور گدی کے گڑھے کے درمیان کی جگہ۔

الْقَلَاءُ: کڑھائی بنانے والا۔ کڑھائی میں گوشت بھوننے والا۔
 الْقَلَاءَةُ: وہ جگہ جہاں کڑھائیاں تیار ہوتی ہیں۔
 الْقَلِيَّةُ: جو بھوتا جائے۔ شوربا جو اوٹ کے گوشت سے بنایا جائے۔ راہب کی کوٹھری۔ ج قلايا۔
 الْقَطْلَةُ وَالْمَقْلَةُ: کڑھائی۔ فَرَايَ بَانَ: ج مَقْلٌ۔
 الْمَقْلَةُ: وہ مقام جہاں کڑھائی بنائی جائے۔
 الْمَقْلِيُّ: جو بھوتا جائے۔
 قَمٌّ (ن) قَمًّا: خشک ہونا۔ شَارِيَةٌ: موٹھ جڑ سے موٹنا۔ الْبَيْتُ: گھر میں بھاڑوہنا۔
 صَفْتٌ قَامٌ وَقَمَّامٌ () وَقَمَّامٌ مَا عَلَى الْمَائِدَةِ: کھانا وَقَمَّامٌ الشُّئُ: مزاولت کرنا۔ اعتماد کرنا۔ خزانہ کرنا۔
 قَمَّمَةٌ: خشک کرنا۔ قَمَّمُ النَّخْمِ: ستارے کا وسط آسمان میں پینچنا۔
 تَقَمَّمُ مَا عَلَى الْمَائِدَةِ: دسترخوان پر سے سب کچھ کھا لینا۔ الشُّئُ: کسی چیز پر چڑھنا۔
 النَّخْلَةُ: درخت خرما پر چھانا اور سرے تک پینچنا۔ الزَّجْلُ قِيْرَةٌ: ہمسرہ غالب آتا۔
 الْقِمَّةُ: ہر چیز کی چوٹی۔ لوگوں کی جماعت۔ بدن۔
 قَدَّ قَامَتِ ج قَمَّمِ۔
 الْقِمَّةُ: شیر کا تھہ۔ کوڑا گھر۔
 الْقَمِيْمُ: خشک سبزی۔ ستو۔
 الْقَمَّامَةُ: کوڑا کرکٹ۔ لوگوں کی جماعت ج قَمَّمِ۔
 الْقَمَّمُ وَالْمَقَّمُ: دسترخوان پر کاسب کچھ کھا لینے والا۔
 الْقِمَّةُ: بھاڑوہ۔ ج مَقَّامٌ () وَالْقِمَّةُ: پھینے ہوئے کھروالے جانوروں کے ہونٹ۔
 قَمًّا (ف) وَقَمُّوٌ (ك) قَمَاءَةٌ وَقَمَاءَةٌ وَقَمَاءَةٌ وَقَمَاءَةٌ: ذیل و خوار ہونا۔ صَفْتٌ قَمِيٌّ ج قَمَّاءٌ وَقَمَّاءٌ۔
 قَمًّا (ف) قَمَّاءُ الْمَكَانِ وَبِهِ: داخل ہونا اور اقامت کرنا۔ هُ: آنکھڑا۔
 قَمَّاتٌ (ف) قَمَّاتٌ وَقَمَّاتٌ (ك) قَمَّوَةٌ ا

الْقَلَمَةُ: مہ۔ کہنے لوگ۔
 قَلَمَسَةٌ: ٹوپی پہنانا۔ قَلَمَسَ الشُّئُ: چھپانا۔
 الزَّجْلُ: سینہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا۔
 تَقَلَمَسَ: ٹوپی پہنانا۔
 الْقَلَمَسَةُ وَالْقَلَمَسِيَّةُ: ٹوپی ج قَلَمَسٌ وَقَلَمَسٌ وَقَلَمَسٌ وَقَلَمَسِيٌّ اور تَقَمَّرٌ قَلَمَسِيَّةٌ وَقَلَمَسِيَّةٌ اور پادری جس ٹوپی کو استعمال کرتا ہے اس کو عوام قَلَمَسَةٌ کہتے ہیں۔
 قَلًا يَقْلُو قَلْوًا: اللَّحْمُ وَغَيْرُهُ: گوشت کڑھائی میں بھونا۔ صفت فاعلی۔ قَلَاءٌ اور صفت مفعولی مَقْلُوٌ۔ الْإِبِلُ: اونٹوں کو کہا جاتا۔
 الْقَلَّةُ وَالْقَلَّةُ: کھلی ڈنڈا (کھلیا)۔
 قَلًا وَقَلَاءَةُ الزَّجْلُ: بغض رکھنا۔
 تَقَلَّى إِلَيْهِ: نفرت کرنا۔ بغض ظاہر کرنا۔
 عَلَى فَرَّاسِهِ: مضطرب ہونا۔ تھلانا۔
 تَقَالَى الزَّجْلَانِ: ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ تَقَالٍ" ان کے درمیان بغض ہے۔
 اِقْلَوْلِيْ اِقْلِيْلَاءُ: کوچ کرنا۔ بے آرام ہونا۔ سکرنا۔ جگہ سے علیحدہ ہونا۔ فِي الْجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بھاگنا۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا اڑنے میں بلند ہونا۔ درخت کے اوپر کے حصہ پر اترنا۔ هُ: بیٹھ پر سوار ہونا۔
 الْقَلْوُ: ہلکا ہلکا۔ جوان ہلکا ہلکا۔
 الْقَلَّةُ: ج قَلَاتٌ وَقَلْوَانٌ وَقَلْوَانٌ (الْمَقْلِيُّ وَالْمَقْلَاءُ) کھلی ڈنڈا۔ الْقَلَّةُ: ہرن کے چھانے کے لیے ایک قسم کا چھندا۔
 الْقَلْوَةُ: جانور جو اپنے سوار کو لے کر سب سے آگے بڑھ جائے۔
 الْقَلْوِيُّ: بلند پر واز پرندہ۔
 قَلِيٌّ يَقْلِي قَلِيًّا: اللحم وغيره: گوشت بھونا صفت فاعلی۔ قَلَاءٌ: صفت مفعولی مَقْلِيٌّ۔
 فَلَانًا: سر ربارنا۔ الزَّجْلُ وَقَلِيَّةٌ يَقْلَاهُ قَلِيٌّ وَقَلَاءَةٌ وَقَلِيَّةٌ: بغض رکھنا۔ صفت فاعلی قال اور صفت مفعولی مَقْلِيٌّ۔
 الْقَلِيُّ وَالْقَلِيٌّ: حق۔
 الْقَلِيُّ: پہاڑوں کی چوٹیاں۔ مردوں کی کھوپڑیاں۔ وَاوَدَّ قَلَّةً۔

القَمِيحَة - بھلی (دو یا ستونوں کی)
وَجَلَّ قَمُوْحٌ لِلنَّبِيِّ: بہت پیئے والا۔
القَمْحَدْوَة - سر کے پچھلے حصے میں اٹھی
ہوئی جگہ۔

أَقْمَحَ أَقْمَاحًا بِأَنْفِهِ: بڑائی بتانا۔ حکمران کی
طرح پیشنا۔
قَمَدًا (ض) قَمَدًاو قَمُوْدًا: انکار کرنا۔ باز رہنا۔
نیکی یا بدی میں لگا رہنا۔

قَمِيْدًا (س) قَمِيْدًا: لمبی اور موٹی گردن والا ہونا۔
صغرت أقمَد مؤنث قَمِيْدًا۔
أَقْمَدُ الرَّجُلِ: گردن بلند کرنا۔

القَمِيْدُو القَمِيْدُو القَمِيْدُو: مضبوط ہونا۔
القَمِيْدُو والقَمِيْدُو والقَمِيْدُو: لمبی گردن
والی اور بقیل بعض موٹی اور لمبی گردن والی۔
القَمِيْدُو: لمبے قد والا۔

قَمَرٌ (ض) قَمَرًا: جو اٹھتا ہے۔ الرَّجُلُ
جوئے میں غالب آتا۔

قَمَرٌ (ن) ض) قَمَرًا الرَّجُلُ مَالَةً: مال چھین
لیتا۔
قَمَرٌ (س) قَمَرًا الشَّيْءُ: بہت سفید ہونا۔

الرَّجُلُ: برف کی وجہ سے چند حیوانا۔
چاندنی رات میں بے خواب ہونا۔ الكَلَا
والمَاءُ وَغَيْرُهُمَا كَمَا سِ بَانِي وَغَيْرِهِ بَسْت
الْإِبِلُ: اونٹ کا سیراب ہونا۔

قَامَرٌ مَقَامَرَةٌ وَقَمَارًا: باہم جو اٹھتا۔
أَقْمَرُ اللَّيْلِ: چاندنی کا گھٹ کرنا۔

الهِلَالُ: پورا چاند بننا۔ القَوْمُ: چاندنی
میں ہونا۔ چاند کے ٹٹنے کا انتظار کرنا۔
الشَّمْوُ: پھل کے پکنے میں تاخیر ہونا یہاں تک کہ
سردی آجائے پکنے سے پہلے سردی کا آجانا اور
مٹھاس کا جانا رہنا۔ الْإِبِلُ: اونٹ کا
سیراب ہونا۔ بہت گھاس میں جڑنا۔

تَقَمَّرَ: چاندنی رات میں شکار کیلئے لگانا۔
الرَّجُلُ: جوئے میں غالب آتا۔ چاندنی
رات میں آنا۔ الظُّيُورُ وَالظَّبَاةُ: پرندوں یا

پرندوں کا چاند کی روشنی میں شکار کرنا۔
الظُّيُورُ: پرندہ کو شکار کیلئے رات میں آگ سے
چندھا کرنا۔

تَقَامَرُ القَوْمُ: باہم جو اٹھتا۔

أَقْمَارًا أَقْمِيْرًا: سفید ہونا۔ چاند کے رنگ کا
ہونا۔

القَمَرُ: چاند۔ تین رات کے بعد آخر ماہ تک قمر
کہتے ہیں اور اس سے پہلے ہلال جِ أَقْمَارُ
القَمَرَانِ: آفتاب و ماہتاب۔ أَقْمَارُ الْعِلْمِ
وَشُمُوسُهُ: علماء اور کما گیا ہے "اسْتَمَرَّ عَيْنُهُ
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ" یعنی میں نے اس کو مملت
دی۔

القَمْرَةُ: سبزی مائل۔ سفید رنگ۔
المَاءُ القَمِيْرُ: بہت پانی۔ لَيْلَةٌ قَمِيْرَةٌ: چاندنی
رات۔

الخَوْزِفُ القَمْرِيَّةُ: چودہ حروف ہیں جن کے
ساتھ تلفظ میں لام بڑھا جاتا ہے جیسے أَلْقَمَرُ۔
القَمْرِيَّةُ: فاختہ کی مانند ایک مشہور پرندہ مؤنث
قَمْرِيَّةٌ جِ قَمْرُو قَمَارِيَّةٌ۔
القِمَارُ: مہم۔ جو۔

القَمِيْرُ: جواری۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قَمِيْرٌ ك" وہ
جوئے میں تمہارا ساتھی ہے جِ أَقْمَارُ۔ جیسے نَصِيْرٌ
وَأَنْصَارُ۔

الأَقْمَرُ: سبزی مائل سفید رنگ والا۔ سفید و جُ
أَقْمَرٌ: چاند کے مشابہہ چہرہ۔ سَحَابٌ أَقْمَرٌ: پانی
سے بھرا ہوا بادل۔

القَمْرَاةُ: الاقمر کا مؤنث۔ چاندنی۔
لَيْلَةٌ مَقْمَرَةٌ وَمَقْمَرَةٌ: چاندنی رات۔ عرب کے
امثال میں سے ہے "أَنْشَطَ مِنْ ظَلْمِي مَقْمَرٌ"
بیان کیا گیا ہے کہ چاندنی میں ہرن کو شکار حاصل
ہوتا ہے اور وہ اٹھتا کودتا ہے اور کبھی دھوکے میں
آجاتا ہے اور درندہ شکار کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے
دوسری امثال میں کہا گیا ہے "أَعَزَّ مِنْ ظَلْمِي
مَقْمَرٌ"۔

المَقْمَرُورُ: مغم۔ بڑائی۔ ناپسندیدہ بات اور اسی
سے امثال ہے "وَضَعْتُ يَدِي بَيْنَ إِخْدَى
مَقْمَرُوْرَتَيْنِ" دو بڑائیوں میں سے ایک بڑائی میں
میں نے ہاتھ ڈالا۔

القَمْرُنُ: پستہ۔ تدم۔ چھوٹے کان والا۔
قَمْرَضٌ قَمْرَضَةٌ: بلو ام کھانا۔
لَبِنٌ قَمَارِصٌ: دودھ جس کے پینے میں

چراہت لگے۔ بہت کھٹا دودھ۔

قَمَرٌ (ن) ض) الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ الشَّيْءُ:
اکھینوں کے کناروں سے پکڑنا۔

أَقْمَرُ الرَّجُلِ: بیچارہ چیزوں کا تجربہ کرنا۔
القَمْرُ: بے کار مال۔

القَمْرَةُ: کھجور کی ایک مٹھی۔ نباتات کا کھلونہ
جس میں دانہ نہ ہو۔ جِ قَمْرٌ۔

قَمَسَةٌ (ن) ض) قَمَسًاو أَقْمَسَةٌ فِي الْمَاءِ:
پانی میں غوطہ دینا۔ أَقْمَسَ الكَوْكَبُ: ستارے
کا غروب ہونا۔ قَمَسَتِ الدَّلْوُ فِي
المَاءِ: ڈول کا ڈوب جانا۔ قَمَسَ بِهِ فِي الْبَيْتِ:
کوئیس میں پھینکا۔

الْوَلَدُ فِي الْبَيْتِ: بچے کا پیٹ میں حرکت
کرنا۔

قَمَسَ (ن) ض) قَمَسًاو قَمَسًاو الْقَمَسُ
فِي الْمَاءِ: پانی میں غوطہ لگانا۔ انْقَمَسَ
الكَوْكَبُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ انْقَمَسَ فِي
الرِّيْحَةِ: کوئیس میں کھڑا ہونا۔

قَمَسَ الرَّجُلُ: اونٹوں کو سیراب کرنا۔
قَامَسَةَ قِمَاسًاو مَقَامَسَةً: غوطہ لگانے میں
مقابلہ کرنا۔ مناظرہ کرنا۔ مباحثہ کرنا۔ کہا گیا ہے
"هُوَ يَقَامِسُ خُوْتًا" وہ پھلی سے غوطہ لگانے
میں مقابلہ کرتا ہے یعنی اپنے سے زیادہ علم والے
سے مباحثہ کرتا ہے۔

تَقَامَسُوا فِي الْمَاءِ: باہم غوطہ زنی کرنا۔
القَمَاسُ: غوطہ خور۔

القَامُوسُ: سمندر۔ سمندر کا گہرا حصہ۔ جِ
قَوَائِمِيسُ۔

القَامُوسُ: علامہ محمد الدین فیروز آبادی کی عظیم
لغت میں ایک مشہور کتاب زمانہ موجودہ میں ہر
لغت کی کتاب کو قَامُوسُ کہتے ہیں۔

القَمَاسُ: کوئیس میں پانی کی زیادتی۔
القَمِيْسُ جِ قَمَاسِيْسُ القَمِيْسُ: سمندر۔
القَمُوسُ: کتوں جس میں پانی زیادہ ہونے کی
وجہ سے ڈول ڈوب جائے۔

القَمَسُ: مرد شریف جِ قَمَاسِيسُ و
قَمَاسِيَّةُ۔

القَمُوسُ: امیر۔ سمندر کا گہرا حصہ۔ جِ

آسانی سے حلق سے اترتا _____ سَمْعَةٌ
لِفْلَانِ: خاموش ہونا _____ الوطْب: قیف
لگانا۔

قَمِعَتْ (س) قَمَعًا عَيْنُهُ: گوشہ چشم میں درم
وال ہونا۔ صفت قَمِعَةٌ _____ الفرس: ایک
سوئے گھنے والا ہونا _____ عُرْفُوبُ الفرس:
ایڑی کے سرے کا موٹا ہونا _____ الظبِيَّةُ:
ہرن کی ناک میں کھسی داخل ہونا اور اس کی وجہ
سے اس کا سر ہلانا _____ فَلَانٌ الدَّوَاءُ: دوا
پھانکنا۔

قَمَعَتِ البُسْرَةُ وَنَحْوُهَا: گھجرو وغیرہ کی پینڈی
کو زور کرنا۔ قَمَعَتِ البُسْرَةُ وَنَحْوُهَا: گھجور
وغیرہ کی پینڈی کا زور ہونا۔
أَقْمَعَةٌ: ذیل و خوار کرنا۔ رد کرنا۔ دفع کرنا۔
ہٹانا۔ تم گوسے "أَقْمَعْتُهُ" یعنی فلاں میرے پاس
آیا میں نے اس کو ہٹا دیا۔

نَقَمَعَ: خمیر ہونا۔ مدہوش ہونا۔ تما۔ بیٹھنا۔
ذیل ہونا _____ الذَّبَاب: کھسی مارنا۔ تم گوسے
تَوَكَّنْتُهَ يَنْقَمَعُ میں نے اس کو کھسی مارتا ہوا
چھوڑا (_____ واقْتَمَعَ) الشَّيْءُ: چھٹا اور کھا گیا
ہے "اقمعه ما في الإناء" یعنی برتن میں جو
کچھ تھا سہا پی گیا۔

انْقَمَعَ: خوار و ذلیل ہونا۔ پوشیدہ مکان میں
داخل ہونا _____ الزُّجْلُ: تھما بیٹھنا۔

القَمْعُ والقَمْعُ والقَمْعُ: قیف۔ جِ اقْمَاعُ۔
گھجور وغیرہ کے نیچے کی پینڈی۔ اور تشبیہ کی بنا
پر انگشتانہ کو بھی قَمْعُ کہتے ہیں۔ جِ قَمْعُوعُ۔

القَمْعُ: آنکھ کے گوشوں میں درم یا سرفی۔
گھوڑے کے گھٹنے میں یا ایڑی میں موٹاپا۔ حلق کا
کنارہ۔ سانس کی نالی کا کنارہ۔ زخروہ کی ابھری
ہوئی ہڈی۔

القَمْعَةُ والقَمْعَةُ والقَمْعَةُ: مِنَ المَالِ: چٹا
ہوا عمدہ مال۔

الاقْمَعُ: مَوْتٌ قَمَعًا جِ قَمْعُ والقَمْعُوعُ:
وہ شخص جس کی آنکھ کے گوشے میں درم یا سرفی
ہو الاقمع مِنَ العَجَبِ: گھوڑا جس کے ایک گھٹنے
میں موٹاپا ہو۔

القَمْعَةُ: کوہان کی چوٹی۔ آنکھ کا زخم۔ حلق کا

قَمَطَةٌ (ن ض) قَمَطًا وَقَمَطَةً: گوارہ میں
چھوٹے بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا _____
الايِلُ: اُونٹوں کو قطار میں کرنا _____ طَعْمُ
الشَّيْءِ: چکھنا _____ الشَّيْءُ: لینا۔ قَمَطُ
الديْنِكُ: مرغ کا جھتی کرنا _____ المَرْأَةُ:
عورت سے جماع کرنا۔

القَمَطَاتُ: رستی جس سے ہاتھ پاؤں باندھیں۔
چوڑا کپڑا جس سے گوارہ میں بچے کو لپیٹ دیں۔ جِ
قَمَطُ (_____ والقَمَطُ) رستی جس سے بکری کی
ناگوں کو ذبح کرنے کے لیے باندھیں۔

عَامٌ قَمِيظٌ: پورا سال۔ کہا جاتا ہے "أَقَمْتُ
عِنْدَهُ حَوْلًا قَمِيظًا" او شَهْرًا قَمِيظًا" میں اس
کے پاس ایک سال کا ل یا ایک مہینہ کا ل ٹھہرا۔
القَمَطَاتُ: چور۔ بچوں کو گوارہ میں باندھنے کے
لیے بنی تھانے والا۔
القَمَطَاتُ: بست سے چور۔

قَمَطَرٌ قَمَطَرٌ الشَّيْءُ: جمع ہونا _____
الشَّيْءُ: جمع کرنا _____ القَرْبَةُ: منگ کو بندھن
سے باندھنا۔ منگ کو بھرنا _____ العَدُوُّ: دشمن کا
بھاگنا۔ قَمَطَرٌ الحَجَارِيَّةُ: جماع کرنا۔

اقْمَطَرٌ: منتشر ہونا۔ سڑنا _____ لِلشَّيْءِ: آمادہ
ہونا _____ اليَوْمِ: دن کا سخت ہونا _____ عَلَيْهِ
الشَّيْءِ: بھیڑ ہونا۔

القَمَطَرُ والقَمَطَرُ: بست۔ بزودان۔ مجرمین کے
پاؤں پھسانے کی لکڑی۔ پست قدموٹا مرد۔ مذکر و
موٹ اور کبھی امْرَأَةٌ قَمَطَرَةٌ کہتے ہیں۔ جِ قَمَطَائِرُ
القَمَطَرُ: شکر دانی۔

القَمَطَائِرُ والقَمَطَرِيُّ: سخت دن یا سخت برائی۔
القَمَطَرِيُّ: پست قدموٹا مرد۔ اکٹھی چال۔

قَمِعَةٌ (ف) قَمَعًا: آکس سے مارنا۔ ارادہ سے
ہٹا دینا۔ خوار و ذلیل کرنا۔ قَمِعَ القَرْبَةَ: باہر کی
طرف منگ کے منہ کو موڑنا قَمِعَ فِي الشَّيْءِ:
داخل ہونا۔

الكُتْبُ: عمدہ عمدہ چھانٹ لینا۔ قَمَعَتِ المَرْأَةُ
بِنَاتِهَا بِالْحِجَاءِ: عورت کا پوروں کو سندی سے
رنگنا _____ هُ: سر کے بالانی حصہ پر مارنا _____
لِبَزْدِ التَّبَاتِ: سردی کا نباتات کو جلادینا _____
مَالِي السَّقَاءِ: ڈگڈگا کے پینا _____ الشَّرَابُ:

قَوَامِسُ: القَوَامِسُ: معین۔

قَمَشٌ (ن ض) قَمَشًا وَقَمَشَ القَمَاشُ:
ادھر ادھر سے جمع کرنا۔

تَقَمَّشَ: جو کچھ ملے اس کو کھا جانا اگرچہ
معمولی ہو۔

اِقْتَمَشَ: القَمَاشُ: ادھر ادھر سے کھانا۔
القَمَاشُ: رومی اور گھٹیا چیزیں۔ قَمَاشُ:
القاس: رزبل لوگ۔ قَمَاشُ البَيْتِ: گھر کا

سلان۔ جِ اَقْمِشَ۔
القَمَشُ: مہ۔ رومی چیز۔
القَمَاشُ: سلمان بچنے والا۔

قَمَصٌ (ن ض) قَمَصًا وَقَمَاصًا وَقَمَصًا
القَرْبُوعُ وَخَيْرُهُ: گھوڑے کا آگلی دونوں ناگوں کو
اکٹھای اٹھانا اور اکٹھای رکھنا _____ العَيْرُ:
گدھے کا کوڑا اور بھانکا (_____ قَمَصًا) وَنُهُ:
نہرت کرنا۔ اعراض کرنا _____ التَّاقَةُ
بِالرَّوْدِيْفِ: اُونٹنی کا اچھلتے ہوئے لے جانا)

_____ وَقَمَصَ التَّحْرُ بِالسَّفِينَةِ: موج سے
حرکت دینا۔ وَقَمَصَهُ: قیص پھانا۔ قَمَصَ
القَرْبُوعُ: کرنا قطع کرنا۔

تَقَمَّصَ: کرنا پھنسا اور استعارہ کی بنا پر کہا جاتا
ہے "تَقَمَّصَ البِلَايَةَ وَالْإِمَارَةَ وَتَقَمَّصَ
لِبَاسَ العِرِّ" تَقَمَّصَتِ الزُّوْفُ: ایک جسم سے
دوسرے جسم میں منتقل ہونا۔

القَمَصُ: انڈے سے نکلے ہوئے ٹڈی کے
تازہ بچے۔ کھیاں یا بچھر جو پانی کے اوپر اڑتے ہیں۔
واحد قَمَصَةٌ۔

القَمَاصُ: مہ۔ قلق۔
القَمِيصُ: کرتا (مذکر و مؤنث) جِ اقْمِصَةٌ
وَقَمِصٌ وَقَمِصَانٌ: القَمِيصُ: نوزائیدہ بچے
کے اوپر کی جلی۔ دل کا غلاف۔ کہا جاتا ہے
"هَتَكَ الخَوْفُ قَمِيصَ قَلْبِهِ" خوف نے اس
کے دل کے غلاف کو پھاڑ دیا۔

القَمِيصُ والقَمِيصُ: وہ جانور جو اپنے سوار
کو لے کر اچھلے۔ القَمِيصُ: شیر۔ بے آرام جس
کو قرآن نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ قَمِيصُ
الْحَنَجْرَةِ" فلاں بڑا جھوٹا ہے۔
القَمِيصِيُّ: تیزوڑ۔

<p>حَلْمَةٌ۔ قَمِيحَةٌ (س) قَمِيحَةٌ التَّبَعِيَّةُ: حوض سے سر اٹھا لینا اور پانی نہ پینا۔ الشَّيْءُ: لہی المَاءِ: ڈوبنا اور اُچھلنا۔</p>	<p>وَقَمَاحِمَةٌ: القَمَاقِمُ: امر عظیم: بڑا معاملہ۔ زَجَلٌ قَمَاقِمٌ: کینہ جو روری اور گھنٹیا قسم کے کھانے پر راضی ہو جائے۔ القَمَاقِمُ: ماہِ ستمبر کے آخری بارہ دن جن سے آنے والے سال کے ہر مہینے کی ہوا کا پتہ لگایا جائے۔</p>	<p>کنارہ۔ قَمْعَةُ الذَّنَبِ: دم کا کنارہ۔ قَمْعَةُ الشَّيْءِ: عمدہ چیز۔ ج قَمْعٌ۔ القَمْعَةُ: کبھی جو سخت گرمی میں اوٹوں اور ہرنوں کو لگ جاتی ہے۔ ج مقامع۔</p>
<p>تَقَمَّتْ لِي الأَرْضُ: آوارہ پھرتا۔ کہا جاتا ہے "خروج فلانٍ يَقَمُّه" فلاں نکلا اس حال میں کہ نہیں جانتا کہ کہاں جائے۔</p>	<p>القَمِيمُ: بچہ۔ خشک کچی کھجور۔ القَمِيمَةُ: لکڑی کا پالہ۔ لوٹا۔</p>	<p>القَمِيعُ: مِنَ الخَبِيلِ: گھوڑا جس کے ایک گھنے میں موٹا ہو۔ سَمَاءٌ قَمِيعٌ: بڑا کوہان۔ ظَلْفٌ قَمِيعٌ: پھسیوں والی آنکھ۔</p>
<p>القَمِيَّةُ: کھانے کی کم خورائش۔ القَامِيَةُ: فاج قَمِيَّةُ۔ إِقْمَهْدُ: مرنا۔ الزَجَلُ أو التَّبَعِيَّةُ: سر اٹھانا۔ بِالْمَكَانِ: ہمیشہ اقامت کرنا۔ تَمِيزٌ دَوْرًا۔</p>	<p>قَمِيلٌ (س) قَمِيلًا القَوْمُ: زیادہ تعداد ہونا۔ سر بیزی و شادابی والا ہونا۔ فَلَانٌ: لاغری کے بعد موٹا ہونا۔ زَانِسَةٌ: سر میں جوں ہوتا ہست جوں ہوتا۔ صفت قَمِيلٌ بظُلْمَةٍ: توند لگانا۔ قَمِيلٌ وَأَقْمَلُ المَوْضِعُ: چراگاہ کا آگنا اور سیاہ ہونا۔</p>	<p>ج قَمْعٌ۔ القَمِيعَةُ: توشہ دان وغیرہ کا سر بند۔ بہترین مال ج قَمْعٌ۔ القَمِيعَةُ: مِنَ الذَّوَابِ: دونوں کانوں کے درمیان اُبھرا ہوا حصہ۔ دم کا سراخ قَمَاقِمُ۔ المَقْمَعَةُ: آئس۔ لکڑی یا لوہا جس سے انسان کو مارا جائے۔ ج مقامع۔</p>
<p>القَمْهَدُ: کینہ۔ بداصل۔ بد صورت۔ قَامَاهُ مَقَامَاةً (بائی) موافقت کرنا۔ تم کو کے مَا يَقَامِينِي هَذَا الشَّيْءُ: یعنی یہ چیز مجھے موافق نہیں۔</p>	<p>تَقَمَّلَ الزَّجَلُ: کچھ موٹائی شروع ہونا۔ القَمَلُ: جو واحد قَمَلَةٌ۔ کہا جاتا ہے "ذَبَّ قَمَلَةٌ": یعنی موٹا ہوا۔ قَمَلٌ قَرِيشٌ: دانہ صنوبر۔</p>	<p>المَقْمُوعُ: منع۔ مخلوب۔ تمخہ زوہ۔ مِنَ الصَّالِ: چٹا ہونا مال۔ القَمْعُوثُ: مرد روٹ و بے غیرت۔ المَقْمَعِيَّةُ: وہ شخص کہ جس کے ساتھ تم نرمی برتو اور وہ تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئے۔</p>
<p>قَمْنٌ (ن) قَمْنَا نَكَاهُ ذَالُ كَرْمٍ مَوْزَنَا: خبروں کو تلاش کرنا۔ لاٹھی سے مارنا۔ قَمْنٌ فِي الخَبِيلِ: پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا۔ إِقْمَنُ: غلام بنانا۔ خاموش ہونا۔ وَالْقَمَانُ: إِقْمَنَانًا) کھڑا ہونا۔</p>	<p>القَمَالُ: جوں۔ القَمَلُ: چھوٹی۔ چھوٹی بیوی۔ واحد قَمَلَةٌ۔ المَقْمَلُ: فقیری کے بعد تو انگریز۔ تَقَمَّنَ الأَمْرُ: قصد کرنا۔ الشَّيْءُ: بکڑنے کے قریب ہونا۔</p>	<p>القَمْعُوثُ: کھربلا کی گولی۔ قَمْعَلٌ قَمْعَلَةٌ التَّبَتُّ: نباتات کا غلاف نکلتا یا ٹھکونہ لگانا۔ الزَّجَلُ: سردار قوم ہونا۔ القَمْعَالُ: سردار قوم: چرواہوں کا سردار۔ القَمْعَلُ: تنگ منہ کی بانڈی ()۔</p>
<p>إِسْتَقَمَّنَ بِالْأَمْرِ: مستقل ہونا۔ بکریوں میں رہ کر انہیں کے دودھ پر گزارہ کرنا۔ القَمْنُ: چھوٹی پہاڑی () وَالْقَمَانُ: کرتے کی آستین۔</p>	<p>القَمَنُ: لائق۔ قریب۔ مناسب۔ یہی لفظ واحد تثنیہ جمع نہ کر مونت سب کے لیے ہے اور کہا جاتا ہے "هَذَا المَنْزِلُ لَكَ مَوْظَلٌّ قَمْنٌ" یعنی یہ مکان اس لائق ہے کہ تم اس میں رہو۔ "وَجِئْتُ بِالْحَدِيثِ عَلَى قَمِيهِ" یعنی میں نے اس کی روش پر بیان کیا۔</p>	<p>القَمْعُوثُ: نباتات کا غلاف یا پھول کی کٹی۔ کوٹیل۔ سر کے اندر گھٹا۔ ج قَمَاقِمُ عَيْلُ۔ قَمَمٌ قَمَمَةٌ مَا عَلَى المَائِدَةِ: دسترخوان کے نیچے ہوئے کو جمع کرنا۔</p>
<p>القَمِنُ: غلام۔ خود مملوک ہوا ہو یا اس کے ماں باپ۔ اور یہ لفظ نہ کر مونت مفرد جمع سب کے لیے ہے اور کبھی جمع اقْتَانٌ وَأَقْتَانَةٌ آتی ہے۔ القَمَانَةُ القَمُونَةُ: غلامی۔ بندگی۔</p>	<p>القَمِنُ: لائق۔ سزاوار۔ حمام کی بھٹی۔ قَمِنٌ اور قَمِينٌ کے ساتھ بایا میں لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے "هُوَ قَمِينٌ وَقَمِينٌ بِكَذَا" وَقَمِينٌ وَقَمِينٌ مِنْ كَذَا" ج قَمَمَاءُ وَقَمِينُونَ۔ مَوْنٌ قَمِينَةٌ ج قَمِينَاتٌ وَقَمَائِنٌ: کہا جاتا ہے: أَمَمْتُ بِهِذا الأَمْرَ یعنی وہ اس کے لیے سزاوار تر ہے۔ وَهَذَا الأَمْرُ مَقْمَنَةٌ لِدَاكِ یعنی زیادہ مناسب ہے۔</p>	<p>تَقَمَّمٌ: بہت پانی میں گھسناساں تک کہ ڈوب جانا۔ الشَّيْءُ: چڑھنا۔ القَمَمِيُّ: حلق کی نالی۔ گھڑا پانی گرم کرنے کے لیے تانبے کا برتن۔ عطر فروش کا برتن۔ گلاب پاش۔</p>
<p>القَمَانَةُ القَمُونَةُ: غلامی۔ بندگی۔ القَمَانَةُ: چھوٹی پہاڑی۔ پہاڑ کی چوٹی۔ وَقَمَانَةٌ كَثَلٌ شَيْءٌ: ہر چیز کا بالائی حصہ۔ ج قَمْنٌ وَقَمَانٌ وَقَمُونٌ وَقَمَانٌ۔ القَمَانَةُ: رسی کی لڑیوں میں ایک لڑی۔ ایک دووا کا نام۔ ج قَمْنٌ۔</p>	<p>القَمِنُ: لائق۔ سزاوار۔ حمام کی بھٹی۔ قَمِنٌ اور قَمِينٌ کے ساتھ بایا میں لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے "هُوَ قَمِينٌ وَقَمِينٌ بِكَذَا" وَقَمِينٌ وَقَمِينٌ مِنْ كَذَا" ج قَمَمَاءُ وَقَمِينُونَ۔ مَوْنٌ قَمِينَةٌ ج قَمِينَاتٌ وَقَمَائِنٌ: کہا جاتا ہے: أَمَمْتُ بِهِذا الأَمْرَ یعنی وہ اس کے لیے سزاوار تر ہے۔ وَهَذَا الأَمْرُ مَقْمَنَةٌ لِدَاكِ یعنی زیادہ مناسب ہے۔</p>	<p>القَمَمِيُّ: حلق کی نالی۔ گھڑا پانی گرم کرنے کے لیے تانبے کا برتن۔ عطر فروش کا برتن۔ گلاب پاش۔</p>
<p>القَمِنُ: غلامی۔ بندگی۔ القَمَانَةُ: چھوٹی پہاڑی۔ پہاڑ کی چوٹی۔ وَقَمَانَةٌ كَثَلٌ شَيْءٌ: ہر چیز کا بالائی حصہ۔ ج قَمْنٌ وَقَمَانٌ وَقَمُونٌ وَقَمَانٌ۔ القَمَانَةُ: رسی کی لڑیوں میں ایک لڑی۔ ایک دووا کا نام۔ ج قَمْنٌ۔ القَمِنُ: طریقہ۔ روش۔ القَمِينَةُ: شیشہ کی بوتل۔ ج قَمَائِنٌ وَقَمَانٌ۔ القَمَانُونَ: قاعدہ۔ اصل۔ ہر چیز کا پائیدار۔ ایک قسم کا باجہ۔ ج قَمَائِنٌ (دخول)</p>	<p>القَمِنُ: لائق۔ سزاوار۔ حمام کی بھٹی۔ قَمِنٌ اور قَمِينٌ کے ساتھ بایا میں لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے "هُوَ قَمِينٌ وَقَمِينٌ بِكَذَا" وَقَمِينٌ وَقَمِينٌ مِنْ كَذَا" ج قَمَمَاءُ وَقَمِينُونَ۔ مَوْنٌ قَمِينَةٌ ج قَمِينَاتٌ وَقَمَائِنٌ: کہا جاتا ہے: أَمَمْتُ بِهِذا الأَمْرَ یعنی وہ اس کے لیے سزاوار تر ہے۔ وَهَذَا الأَمْرُ مَقْمَنَةٌ لِدَاكِ یعنی زیادہ مناسب ہے۔</p>	<p>القَمَمِيُّ: حلق کی نالی۔ گھڑا پانی گرم کرنے کے لیے تانبے کا برتن۔ عطر فروش کا برتن۔ گلاب پاش۔</p>

قنبا (ف) قنواۃ۔ الشئی: گھرا سرخ رنگ والا ہونا۔ اللخیۃ من الخضاب: داڑھی کا خضاب سے سیاہ ہونا (قنبا) اللین: دودھ میں پانی ملانا۔

قنبا (ف) قنبا و قنبا و قننۃ و قننۃ لحنۃ: داڑھی کو خضاب سے سیاہ کرنا۔ قنبا الشئی: گھرا سرخ رنگنا۔

قنبا (ف) قنبا و قنبا: الوجل: قتل کرنا یا کسی دوسرے کو قتل کرنے پر براہِ گیمتہ کرنا۔ قنبا الادیب: چڑے کو خراب کرنا۔ الشئی قنبا: ممکن ہونا اور قریب ہونا۔

قنبا (س) قنوا: مرنا۔ الادیب: چڑے کا خراب ہونا۔ کہا جاتا ہے "أخمر قنای: بہت گھرا سرخ۔"

القننۃ والقننۃ: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پڑے۔

القنیل: ہاتھی کی گردن۔ پستہ تدعورت۔

قنب (ن) قنوا فی الشئی: داخل ہونا۔

القننۃ: آفتاب کا غروب ہونا۔

القنوم: انکور کی تکلیف وہ شیوں کو کاٹ دینا۔

قنب الزرع: خوشہ کے پتے ظاہر ہونا۔

الزهر: کھل سے لگنا۔ القنوم: انکور کی شاخ تراشی کرنا۔

القنوم: الاسباب بخلیہ: شیر کا چنگل کو سمیٹ لینا۔ قننت و القننت و قننت الخیل: چالیس کی جماعت کا دستہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "قننوا و قننوا انحو العذو" جب کہ اسنے ہوں اور چالیس کے عدد کو پہنچ جائیں۔ و قننت الزوجل فی بیتہ: داخل ہونا۔

القنن: سفر میں دور جانا۔ قرض خواہ سے یا طاقتور سے چھیننا۔

قنب الزهر: پھول کا غلاف۔ قنوب۔

القناب: قا۔ بلبلانے والا۔ بھیرا۔ تیز رفتار۔

قاصد و اوقانیت: داوی جس کا سیلاب دور سے جاری ہو۔

القناب: بڑا بادبان۔ شیر کا چنگل۔ من کف الاسباب: شیر کی ہتھیلی کا وہ حصہ جس میں چنگل سنا رہے۔

القناب والقناب والقناب: پتے جن میں

خوش ہوتا ہے۔ القناب: شیر کا بیجہ۔ مکان کی آنت۔

القناب والقناب: جوٹ۔ سن جس سے سٹی بناتے ہیں۔

القنیب: لوگوں کا گروہ۔ گھنا بادل۔

القناب: تیز رفتار قاصد۔ تیز رفتار چھٹی رساں۔

القناب: تیس سے لے کر چالیس تک گھوڑوں کی جماعت جو لوٹ ڈالنے کیلئے جمع ہوں۔

قناب (س) القناب: شیر کا چنگل۔

القناب: شیر کی ہتھیلی۔ کہا جاتا ہے "مخلب الاسباب فی مقننہ" شیر کا چنگل اس کی ہتھیلی میں ہے۔ شکاری کا تھیلہ۔

القننۃ والقننۃ: چنڈول نامی ایک قسم کی چڑیا جسے فارسی میں چکادک کہتے ہیں۔ رج قناب۔

القننۃ: سر پر کچھ زائد پر۔ کفنی۔

دجاجة قننۃ ایثۃ: چوٹی والی مرغی۔ کفنی دار مرغی۔

القننۃ: سانپ۔ پستہ تد۔ مؤنث قننۃ۔

القننۃ: بد صورت عورت یا پستہ تد عورت۔

القننۃ: گوبھی۔ اور عوام قنننۃ بھی کہتے ہیں۔

قننۃ فی بیتہ: چھپنا۔ روپوش ہونا۔ قننۃ الشجرۃ: غلاف کے اندر پھول یا پھل والا ہونا۔

الوجل: غصہ کی وجہ سے پھولنا۔

القننۃ: درخت کی کھلی کا غلاف۔ خوشہ میں گیہوں کا غلاف۔ پستہ تد فیس مرد۔

القننۃ: بمعنی القننۃ۔ ایک قسم کا بچوں کیلئے کپڑا۔ پستہ تد عورت۔ قننۃ الجنین: سوری خراہٹ۔

القنیل والقنیلۃ: لوگوں کی یا گھوڑوں کی جماعت۔ قنابل۔

القنابل: بڑے سروالا (القنیل) موٹا قوی مرد۔

قننت (ن) قنوا: اطاعت کرنا۔ نماز میں کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا۔ کہا جاتا ہے "قننت اللہ و قننت لہ"۔

لہ: ذلیل ہونا۔

قننت (ک) قننۃ: کم خوراک ہونا۔

القننت: نماز میں قیام طویل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا۔ دشمن پر بددعا کرنا۔ پیشہ ج کرنا۔ دیر تک جنگ کرنا۔

القننت: فرمانبردار ہونا۔

القنانت: قا۔ ہمیشہ اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے والا۔ نماز پڑھنے والا۔ رج قننت۔

القننۃ: کم خوراک۔ (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے "سقاء قننۃ": پانی کو روکنے والی مہلک جو لچھے نہیں۔

امراة قننۃ: شوہر کی تابعدار عورت۔

القننۃ: پستہ تد۔

القننۃ: پستہ تد۔

رجل مقننۃ اللخیۃ: پرانہ داڑھی والا مرد۔

قننۃ الوجل: چلنے میں غبار اڑانا۔

القننۃ: چھوٹے سروالا۔ کم غسل۔

القننۃ: غلام۔

قننۃ (ف) قننۃ العوذۃ: کھڑی کا سرا موٹا۔

القناب: پینے والے کا سیراب ہو کر سر اٹھانا۔ سیرابی کے بعد پینے کو تاپنا کرنا۔

القناب: دروازہ کو کھڑی سے اٹھانا۔

قننۃ القناب: دروازے کے لیے لمبی ٹیڑھی کچی بنانا۔

قننۃ: سیرابی کے بعد پینے کو تاپنا کرنا۔

القناب: دروازے کے پیچھے لگانے کا ڈنڈا۔

القناب: لمبی ٹیڑھی کچی۔ کھڑی جس کو در سری کھڑی کے نیچے ڈال کر حرکت دیں۔

القننۃ: غلام یا شہر غلام۔

القننۃ: رج قننۃ و القننۃ: بڑے جسم والا آنف قننۃ: موٹی ناک۔ القننۃ: کشادہ نتھنوں اور سخت آواز منہ والا۔

القننۃ و القننۃ و القننۃ و القننۃ: بڑی چٹان۔

القننۃ: رج قننۃ و القننۃ: چٹانیں۔

القننۃ: کافر۔ ایک قسم کی خوشبو جو زعفران سے بنائی جاتی ہے۔ خوشبودار شراب۔ کہا جاتا ہے "جاء بالامر علی قننۃ" وہ معاملہ کو اپنی

روش پر لایا۔ سونقِ مَقْنَدُوْ مَقْنُوْدُ۔ شکر
لاہو استہ۔ کلامِ مَقْنَدُ۔ شیریں رنگو۔

زَجَلٌ مَقْنُوْدُ الْکَلَامِ۔ شیریں کلام مرد۔

الْفُنْدُ وَالْفُنْدُ۔ ایک آبی جانور جس کی دم
چوڑی ہوتی ہے اور اس کا رنگ سیاہ یا نل سرخ
ہوتا ہے اور اس کی کھال سے پوستین بنتی ہے۔

فَنْدَسٌ۔ گناہ کے بعد توبہ کرنا۔ فی
الأرض: بیرو سفر کرنا۔

الْفَنْدُوعُ۔ مرد بوٹ۔
الْفَنْدُوعُ۔ بیوقوف۔

فَنْدَلٌ۔ بڑے سرد لا ہونا۔ صفت فَنْدَل
و فَنْدَلٌ وَ فَنْدِیْلٌ۔

زاس فَنْدِل۔ بڑا اور مضبوط سر۔

الفنديل۔ چراغ؛ فالوس۔ ج۔ فَنْوِيل (دخیل)

الْفَنْدُولُ۔ ایک خار دار درخت۔ واحد
فَنْدُوْلَةٌ۔

الْفَنْدُوعُ۔ مرد بوٹ۔

الفندوة۔ سر کے گرد اگر دو بال ج فنادع

الفنادع: بلائیں۔ سخت و تلخ بات۔

أَفَنْزٌ۔ چھوٹے ٹکے سے بننا۔

القنز والإقینز۔ چھوٹا ٹکا۔

القنیز والقنار۔ شکاری۔

القنز۔ حص میں ایک لغت ہے۔

القنزعة والقنزعة والقنزعة والقنزعة
والقنزع۔ ہلوں کا گھاجو سر پر چھوڑ دیا جائے۔ سر

کے گرد اگر دو بال۔ پروں کا بقیہ۔ مرغ کی کلفتی۔

القنزعة: بہت پتہ قد عورت۔ ج قنزعات

وقنار۔ ج القنار۔ بلائیں۔ سخت و تلخ بات۔
چھوٹے لوگ۔

أَفَنْسُ الرَّجُلِ: کینہ ہوتے ہوئے شریف کی

طرف اپنی نسبت کرنا۔

الفنس والفنس۔ اصل۔

الْفَنْسُ ج فَنُوسٌ وَالْفَوْنَسُ ج فَوَانِسٌ

وَالْفَوْنُوسُ۔ سر کا بالی حصہ۔ خود کی چوٹی راستہ

کا درمیان۔ گھوڑے کے دونوں کانوں کے
درمیان ابھری ہوئی ہڈی۔

القنيس۔ بیل۔ ج قنیاس۔
فَنَسْرَتُهُ الشِّدْأَهُ وَالسِّنُّ بوزھا کرنا۔

فَنْسَرٌ۔ بوزھا ہونا اور جھرمی پڑنا۔

الْفَنْسَرُ وَالْفَنْسَرِيُّ وَالْفَنْسَرُ۔ بہت بوزھا عمر
رسیدہ۔

الْفَنَائِسُ۔ سخت۔

فَنْسَهُ تَفْنِيْسُهُ۔ کم کرنا۔ اہل و عیال پر نفعہ میں
ٹنگی کرنا۔ فَنْسُ الْفِي الشَّيْءِ: کئی کیا جانا۔

الْفَنْسُوْرَةُ۔ عورت جس کو حیض نہ آئے۔

فَنْصٌ (ض) فَنْصُ الطَّيْرِ: پرندہ کا شکار کرنا۔

فَنْصٌ وَالْفَنْصُ الطَّيْرِ او الطَّيْسُ: پرندہ یا
ہرن کا شکار کرنا۔

الفنص۔ اصل۔

الفنص۔ شکار۔

القناص۔ شکاری۔

القناص۔ شکاری لوگ۔

القنص والقنيص۔ شکاری۔

القنيص۔ شکار۔ مونس قنیصہ۔

القنایصہ۔ پرندے کا پونا ج قواصص شکار کرنے
والے۔

القنایص۔ سخت۔

القنصعور۔ چھوٹی گردن والا۔ چھوٹی پیٹھ والا۔
گھٹھے بدن کا۔

القنضل۔ پتہ قد۔ ایک حکومت کا معتد علیہ جو
دوسری حکومت میں رہے۔ سفیر ج فناصل

(دخیل)
القنضیلة۔ فنضل کے رہنے کی جگہ۔

قَنْبَطٌ (س) قَنْبَطٌ وَقَنْبَطٌ (ض) قَنْبُطٌ وَقَنْبَطٌ

(ک) قنباطہ۔ مایوس ہونا۔ صفت قَنْبَطٌ وَقَنْبَطٌ
وقنوط۔

قَنْبَطَةٌ (ض) قَنْبَطًا۔ منع کرنا۔ باز رکھنا۔

قَنْبَطَةٌ أَوْ قَنْبَطَةٌ۔ مایوس کرنا۔

قَنْبَطٌ قَنْبَطَةٌ۔ خوف سے دوڑنا۔

قَنْطَرٌ قَنْطَرَةٌ۔ بہت مال کا مالک ہونا۔ دیہات
چھوڑ کر شہر میں آگامت کرنا۔ عَلَيْنَا: دیر

بک ٹھہرنا۔ الشئی: مضبوط باز نہا۔

المزواة: عورت سے جماع کرنا۔

القنطر۔ ایک قسم کا پرندہ (۔) والقنطیر
مصیبت۔

القنطرة۔ معمہ۔ بل۔ بلند عمارت ج قناطر۔

الفنظار۔ ایک وزن جس کی مقدار مختلف
زمانوں میں مختلف رہی۔ سو (۱۰۰) رطل۔ مال کثیر۔
ج قناطیر۔

الفنظار اثنین۔ ایک کڑوی گھاس جو متوی معدہ
ہے۔ کہا جاتا ہے قناطیر مَقْنَطَرَةٌ بہت زیادہ۔

فَنَعْتٌ وَفَنِعْتٌ (ف س) قَنْعًا۔ الإیْبِلُ:
اُونٹوں کا تھان پر انا۔

فَنَعْتٌ (ف) قَنْعًا وَفَنِعْتٌ وَاسْتَنْقَعْتُ
الشاةَ۔ بلند تھان والی ہونا۔

قَنْعَةٌ۔ راضی کرنا۔ قَنْعَ المَرْأَةِ: عورت کو
دویشہ اور حانا۔ زَانِسَةٌ بِالسَّيْفِ او

بالقضاء: سرہنگوار یا لامٹی ہے مارنا۔

ہ جزیقہ و عازا: زسوا کی اور عار میں مبتلا کر دینا۔

قَنْعَ الدینِكُ۔ مرغ کا لانے کے وقت گردن کے
پروں کو کھڑا کرنا اور کہا جاتا ہے "قَنْعَةُ الشبِثِ

خِمَارُهُ" یعنی اس پر بڑھاپا چھایا گیا۔

أَقْنَعُ زَانِسَةً أَوْ صَوْلَةً: سرا آواز بلند کرنا۔

یَبْدُوْنَهُ فِی الصَّلَاةِ: ہاتھ پھیلا نا اور اللہ تعالیٰ

سے رحم طلب کرنا۔ الإناء: برتن سے

آندہ ملنا۔ بھر جانے کے لیے پانی کے بہاؤ کی طرف

کر دینا۔ کہا جاتا ہے "أَقْنَعُ الإِنَاءَ فِی التَّهْوِ" یعنی

بھر جانے کیلئے برتن کو نہر میں پانی کے بہاؤ کی

طرف کر دینا۔ أَقْنَعُ الإیْبِلُ: اُونٹوں کو چراگاہ کی
طرف لوٹانا۔

تَفَنْعٌ۔ بخلف قاعت کرنا۔ کپڑے میں پلٹنا۔

فِی السِّلَاحِ: ہتھیار بند ہونا۔ تَفَنْعَتِ
المَرْأَةُ بِالْقَنَاعِ: دوپٹہ اوڑھنا۔

أَقْنَعُ بِالشئی: راضی ہونا۔ الإیْبِلُ:
اُونٹوں کا تھان پر واپس آنا۔ الزَجَلُ

الإیْبِلِ او القنم لَمَّا وَاَهَا: اُونٹوں کو تھان پر
واپس لانا۔

القنح۔ ج أقناع و القناع ج قنح۔ ہتھیار۔

القنح والقنح۔ جھومری لکڑی کی قتالی جس میں

کھانا رکھا جاتا ہے۔ القنح: پہاڑ کے قرب میں

بقیہ پانی ریت کا گول ٹیلہ۔ ج قنعة و أقناع۔
القنح بگل۔

القنعة۔ دو ٹیلوں کے درمیان ہوا رکجہ۔ ج
قنح و ج قنحان۔

<p>القہقری۔ بچھلے پاؤں لوٹا۔ کہا جاتا ہے ”زَجَّعَ القہقری“ وہ بچھلے پاؤں لوٹا۔ القہقرۃ۔ مہ۔ بڑی چٹان۔ گیسوں جو سبزی کے بعد سیاہ ہو جائے۔ قہقر (ف) قہقر۔ کودنا۔ القہقر۔ ریشم۔ القہقر۔ پستہ قد۔ قہقرۃ قہقرۃ۔ زور سے ہنسا۔ ٹھٹھا مار کر ہنسا۔ قہقر (ف) قہقر۔ قہقر۔ قہقر۔ قہقر (س) قہقر وتقہقر۔ جلدہ: کھال خشک ہونا۔ قہقر الزجیل۔ ناگھری کرنا۔ کھراں نعت کرنا۔ قہقر (س) قہقر۔ قہقر کرنا۔ قہقر کرنا۔ قہقر کرنا۔ وتقہقر الزجیل: جسم کو آلودہ رکھنا۔ پاک صاف نہ رکھنا۔ تقہقر: آہستہ چال چلنا۔ اپنی حاجت کا گلہ کرنا۔ بد حال ہونا۔ تقہقر صونہ: آواز کا نرم و ضعیف ہونا۔ اقہقر الزجیل۔ اپنے آپ کو میلا کچھلا رکھنا لا یعنی امور میں مشغول ہونا۔ اقہقر۔ کمزور ہونا اور گر پڑنا۔ القہقر والقہقر۔ چرو۔ ٹیکر۔ کہا جاتا ہے ”حَبَا اللہُ ہذہ القہقرۃ“ اللہ تعالیٰ اس چرو کو پاتی رکھے۔ قہقر (س) قہقر الزجیل: گلیل الاشتهاء ہونا۔ صفت قہقر۔ اقہقر عن الطعام: کھانے کی خواہش نہ رکھنا۔ عن الشئی: ناپسند کرنا۔ عن الشراب والصاء: چھوڑنا۔ الاہل عن الصاء: اونٹوں کا پانی پر نہ جانا۔ الیہ: خواہش کرنا۔ اقہقرت السماء: آسمان کا بادل سے صاف ہونا۔ القہقر۔ بداصل۔ کینہ۔ بد صورت۔ قہقر قہقرۃ۔ کودنا۔ القہقری۔ گھوڑے کا پوہ۔ دوڑنا۔ جلد بازی۔ نشاط۔ القہقر۔ پستہ قد۔ القہقرۃ۔ مہ۔ من النساء: بہت پستہ قد عورت۔ اقہقری۔ توہینے کی مداومت کرنا۔</p>	<p>الاقہقران۔ ہاتھی اور بھیس۔ القہقر۔ چرو۔ کہا جاتا ہے ”حَبَا اللہُ قہقرک“ اللہ تعالیٰ تمہارے چرو اور تمہاری عزت کو باقی رکھے۔ القہقرۃ۔ مادہ گور خر۔ اور ایک قسم کی چال۔ قہقری۔ قہقر (ف) قہقر فی منشیہ: چھوٹے چھوٹے قد سے چلنا۔ القہقر۔ سفید۔ تیرہ گون۔ صاف رنگ والا۔ ایک قسم کی کبری۔ نیل گائے کا بچہ۔ بچیا۔ زرمس کی کھلی جب کہ کھلی نہ ہو۔ قہقر۔ قہقر (ف) قہقر۔ غائب ہونا۔ قہقر اللحم: گوشت میں آگ کی وجہ سے پانی لگانا۔ قہقرۃ۔ غائب آنا۔ اقہقرۃ۔ مطلوب پانا۔ اقہقر الزجیل: زلت اور قہر کی طرف مائلہ والا ہونا۔ یاران مقہور کا ساتھی ہونا۔ القہقرۃ۔ مجبوری۔ کہا جاتا ہے ”ہُوَ قہقرۃ لنساء“ وہ ہر ایک کا مقہور ہے۔ القہقرۃ۔ من النساء: بہت شرم عورت ج قہقرات۔ القہقر۔ فا۔ بلند۔ ج قہقر۔ القہقر۔ القہقر کا موٹ۔ مملکت مصر کا پتہ تخت۔ ہر جہ کا سابق۔ سینہ۔ سر سینہ۔ موٹھے اور گردن کے درمیان کا گوشت۔ القہقر۔ اسم مبارک۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔ القہقرمان۔ وکیل۔ آمد و خرچ کا منتظم۔ ج قہقرۃ۔ القہقرۃ۔ قرآن کا فریضہ۔ القہقرم۔ پستہ قد۔ القہقر۔ عمر سیدہ۔ لہجہ قد والا۔ بیکن۔ قہقر قہقرۃ و تقہقر۔ بچھلے پاؤں لوٹا۔ کہا جاتا ہے ”ہُوَ یقہقر فی منشیہ“ جبکہ بچھلے پاؤں چلے۔ القہقر۔ عمارت جس کو بچھلے چھروں سے بناتے ہیں اور عوام اسے ”قہقر“ کہتے ہیں۔</p>	<p>القہقر۔ فا۔ کہا جاتا ہے ”اخمر قہقر“ بہت گہرا سرخ۔ القہقران۔ موٹا۔ القہقری والقہقرۃ۔ کبری یا اونٹنی جس کو ذبح نہ بنایا جائے۔ القہقر والمقہقری۔ نیزہ والا۔ القہقر: نالی کھودنے والا۔ الاقہقر من الأنوف: تنھے نچک اور درمیان سے بلند ناک۔ اور کہا جاتا ہے ”ہُوَ اقہقر الأنف“ وہ نچک تنھے اور درمیان سے بلند ناک والا ہے۔ موٹ قہقر۔ القہقر والقہقرۃ۔ من الحاریط: دیوار کی وہ جانب جس پر سایہ رجوع کرے۔ القہقر۔ سیاہی۔ القہقرۃ والمقہقرۃ۔ وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پڑے۔ قہقر یقہقر قہقر وقہقر وقہقر: حاصل کرنا۔ کمانی کرنا۔ حیال کو لازم ہونا۔ قہقر اللہ فلانا: خوش کرنا۔ راضی کرنا۔ قہقری مقہقرۃ الشئی فلانا: موافق ہونا۔ القہقر: ملانا۔ الشئی بالشئی: خلط ظہر کرنا۔ القہقر: بیبہ رہنا۔ اقہقر القہقر اللہ: فہمی کرنا۔ خوش کرنا۔ راضی کرنا۔ الصنہ فلانا ولفلان: شکار کا زور میں آجانا۔ قہقر آجانا۔ القہقرۃ والقہقرۃ۔ کمانی۔ ج قہقر۔ کہا جاتا ہے ”لہ عنہم قہقرۃ وقہقرۃ“ فالص اس کی کھریاں ہیں۔ أرض مقہقرۃ۔ ہر شخص کے موافق آب و ہوا والی زمین۔ قہقر (س) قہقر۔ چھوٹے رنگ کا ہونا۔ صفت قہقر و اقہقر۔ اقہقر عن الطعام: ہاتھ کھینچ لینا اور خواہش نہ کرنا۔ القہقر۔ بڑا اونٹ۔ القہقرۃ۔ چھوٹا رنگ۔ القہقر والقہقرۃ۔ سفید۔</p>
--	---	---

وَقِيدُودَةٌ وَقُوْدٌ. تَقْوِيْدًا وَتَقْوِيْدًا الدَّابَّةُ: چوپائے کو آگے سے کھینچنا۔

قَائِدٌ يَقْوِدُ قِيَادَةَ الْخَيْلِ: سالار جمیش ہوتا۔

القَائِلُ إِلَى مَوْضِعِ الْقَبْلِ: قائل کو قصاص کے لیے لے جانا۔

قَيْدُ الدَّقِيْقِي: آلے کا پیرا بنانا اور پکایا جانا۔

قُوْدٌ يَقْوِدُ قُوْدًا: الفَرْسُ وَغَيْرُهُ: لمبے پیٹھ اور گردن والا ہوتا۔ صفت اَقْوَدُ مَوْنُثٌ قُوْدًا: ج قُوْدٌ۔

اَقَادَ: آگے بڑھنا۔ العَيْشُ: بارش کا پھینا۔ هُ خَيْلًا: آگے سے کھینچنے کے لیے دیتا۔

القَائِلُ بِالْقَيْدِ: متقول کے بدلے میں قائل کو قتل کرنا۔

قَاوِدَةٌ مَقَاوِدَةٌ: ساتھ ساتھ چلنا۔

اِنْقَادُ اِنْقِيَادًا: اِلْفُلَانُ: تابعدار ہونا۔ فروتنی کرنا۔

القَطْرِيفِيُّ اِلَى كَذَا: واضح ہونا۔

نمایاں ہونا۔ اِنْقَادُ اِنْقِيَادًا: کھینچنا۔ اِنْقَادُ الدَّابَّةِ: کھینچنا۔

کما جاتا ہے "اِنْقَادُ الدَّابَّةِ فَاِنْقَادَاتٍ" اس نے جانور کو کھینچا پس وہ کھینچ گیا

(لازم و مستحضر)

تَقَاوَدَ الْمَكَانُ: جگہ کا ہموار ہونا۔

الزُّجْلَانُ: دو مردوں کا ایک ساتھ بھاگنا گویا کہ دونوں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں۔

اِسْتَقْدَادٌ: ذلیل ہونا۔ فروتنی کرنا۔ لُءٌ: فریاد بردار ہونا۔ تابعدار ہونا۔

الْاَمِيْرُ: متقول کا قصاص لینے کی درخواست کرنا۔ کما جاتا ہے: اِسْتَقْدَادُ الْاَمِيْرِ مِنَ الْقَائِلِ فَاَقَادَهُ مِنْهُ اِسْتَقْدَادًا: امیر سے قصاص لینے کی استدعا کی اور امیر نے قصاص لیا۔

القَادُ وَالْقَيْدُ: اندازہ و مسافت۔ کما جاتا ہے: "بَيْنَهُمَا قَادٌ قَوْسٌ اَوْ قَيْدٌ قَوْسٌ" ان دونوں کے درمیان ایک کمان کی مقدار قاصد ہے۔

القُوْدُ: مہ۔ کوتل گھوڑا۔ کما جاتا ہے "مَرْبَعًا قُوْدًا"۔

القُوْدُ: قود کا مصدر۔ قصاص۔ متقول کے بدلے میں قائل کو قتل کرنا۔

القِيَادُ: مہ۔ جانور کو کھینچنے کی رتن۔ کما جاتا ہے

"تَخَلَّصْتُ قَائِيَةً اَوْ قَائِبَةً مِنْ قُوْبٍ" یعنی انڈا چوزے سے جدا ہو گیا۔ اس موقع پر کما جاتا ہے جبکہ کوئی اپنے ساتھی سے جدا ہو جائے۔

القُوْبُ: انڈے کے چھلکے۔

القُوْبَاءُ وَالْقُوْنَاءُ: ج قُوْبُ وَالْقُوْبَةُ وَالْقُوْبَةُ: داد کی بیماری۔ عوام اسے خَوَازِ كَتے ہیں۔

القُوْبَةُ: مگر مقيم۔ خانہ نشین۔

القُوْبِيُّ: چوزے کھانے کا حریس۔

المُنْقُوْبُ: چملا ہوا۔ داد کھلی کی وجہ سے کھال چملا ہوا۔

القُوْبِيُّ: مگر مقيم۔ خانہ نشین۔

القُوْبِيُّ: چوزے کھانے کا حریس۔

القُوْبِيُّ: چملا ہوا۔ داد کھلی کی وجہ سے کھال چملا ہوا۔

القُوْبِيُّ: مگر مقيم۔ خانہ نشین۔

القُوْبِيُّ: چوزے کھانے کا حریس۔

القُوْبِيُّ: چملا ہوا۔ داد کھلی کی وجہ سے کھال چملا ہوا۔

القُوْبِيُّ: مگر مقيم۔ خانہ نشین۔

القُوْبِيُّ: چوزے کھانے کا حریس۔

القُوْبِيُّ: چملا ہوا۔ داد کھلی کی وجہ سے کھال چملا ہوا۔

القُوْبِيُّ: مگر مقيم۔ خانہ نشین۔

القُوْبِيُّ: چوزے کھانے کا حریس۔

القُوْبِيُّ: چملا ہوا۔ داد کھلی کی وجہ سے کھال چملا ہوا۔

القُوْبِيُّ: مگر مقيم۔ خانہ نشین۔

القُوْبِيُّ: چوزے کھانے کا حریس۔

القُوْبِيُّ: چملا ہوا۔ داد کھلی کی وجہ سے کھال چملا ہوا۔

القُوْبِيُّ: مگر مقيم۔ خانہ نشین۔

القُوْبِيُّ: چوزے کھانے کا حریس۔

القُوْبِيُّ: چملا ہوا۔ داد کھلی کی وجہ سے کھال چملا ہوا۔

القُوْبِيُّ: مگر مقيم۔ خانہ نشین۔

القُوْبِيُّ: چوزے کھانے کا حریس۔

القُوْبِيُّ: چملا ہوا۔ داد کھلی کی وجہ سے کھال چملا ہوا۔

القُوْبِيُّ: مگر مقيم۔ خانہ نشین۔

القُوْبِيُّ: چوزے کھانے کا حریس۔

القُوْبِيُّ: چملا ہوا۔ داد کھلی کی وجہ سے کھال چملا ہوا۔

القُوْبِيُّ: مگر مقيم۔ خانہ نشین۔

القُوْبِيُّ: چوزے کھانے کا حریس۔

القُوْبِيُّ: چملا ہوا۔ داد کھلی کی وجہ سے کھال چملا ہوا۔

القُوْبِيُّ: مگر مقيم۔ خانہ نشین۔

القُوْبِيُّ: چوزے کھانے کا حریس۔

القَهْوَةُ: خالص دودھ۔ پوری شہم سیری۔ شراب۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شراب کو توہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے پینے والے کی اشتہا کم ہو جاتی ہے۔

بو۔ کما جاتا ہے "اِنَّ فُلَانًا تَلَطَّبَ قَهْوَةَ الْعَمِّ" یعنی فلاں کے منہ کی بو اچھی ہے۔

اور مولدین درخت بن کو بھی کہتے ہیں اور اس درخت سے پینے کی جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو بھی توہ کہتے ہیں۔ نیز جس جگہ کثرت سے پی جائے اس کو بھی مجازاً قوہ کہتے ہیں۔

القَهْوَانُ: عمر رسیدہ موٹے بیگلوں والا کما۔

قَهْوَسٌ وَتَقَهْوَسٌ: دوڑنا قَهْوَسٌ الزُّجْلُ: خوف سے دوڑنا۔ و تَقَهْوَسٌ: جبکہ کرمضطریانہ چلنا۔ کبڑا ہونا۔

قَهْوِيٌّ (س) قَهْوِيٌّ وَاقْتِهَاءٌ عَنِ الطَّعَامِ: اشتہا کم ہونا۔ قَهْوِيٌّ عَنِ الشَّرَابِ: چھوڑنا۔

اِقْتِهَى عَنِ الطَّعَامِ: بغیر مرض کے کمانے کی خواہش نہ ہونا۔

القَاهِي: تیز خاطر۔ عَيْشٌ قَاهٍ: خوش جمیش۔

قَابٌ يَقْوُبُ قُوْبًا اِلْاَرْضُ: زمین کو گولائی میں کھورتا۔

القَابِيْرُ: قلاب۔ پرندہ کا اپنے انڈے کو توڑنا۔

القَابِيْرُ: قلاب۔ پرندہ کا اپنے انڈے کو توڑنا۔

قَوْبٌ اِلْاَرْضُ: زمین کو گولائی میں کھورتا۔

رَوْدٌ كَرِشَانٌ يَجْعُوْرُنَا الشَّيْءُ: اُكْبِرْنَا: تقوُبٌ: جڑ سے اکھڑنا۔ کما جاتا ہے "تَقْوُبٌ مِّنْ رَّاسِهِ مَوَاضِعٌ" یعنی اس کے سر میں چند جگہ چھل گئیں (۔ اِنْقَابُ) الْمَكَانُ: درخت اور گھاس سے صاف کیا جانا۔

تَقْوَيْتُ وَانْقَابِيْتُ الْبَيْتَةَ: انڈے کا پھنسا۔ و انْقَابِيْتُ اِلْاَرْضُ: زمین کا کھدنا۔

اِنْقَابُ الشَّيْءِ: پسند کرنا۔ اِنْقَابِيْتُ كَرْنَا: القَابُ: مقدار۔ کمان کے قبضہ اور گوشہ کمان کے درمیان کا فاصلہ۔ کما جاتا ہے "هُوَ عَلِيٌّ قَابٌ قَوْسِيْنٌ" کنایہ ہے امت قریب ہونے سے۔

القُوْبُ: چوزہ۔ ج اَقْوَابُ: اُمُّ قُوْبٍ: مصیبت۔

القَيْبُ: مقدار۔ کما جاتا ہے "بَيْنَهُمَا قَيْبٌ قَوْسٌ"۔

القَابَةُ وَالْقَائِبَةُ: چوزہ۔ انڈا اور مثال میں ہے

”فَلَانٌ سَلِسٌ الْقِيَادَ“ فلاں تسماری خواہشات کا فرمایا ہوا ہے ”وَاعْظَى فُلَانٌ الْقِيَادَ“ فلاں خوشی سے فرمایا ہوا ہو گیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ مجبور۔

فَرَسٌ قَيْدٌ وَقَيْدٌ وَقُوْذٌ وَقُوْذٌ سِدْهًا هُوَ تَابِعُ ارْغُوْزًا۔

الْقَوَادُ اسم مبالغہ۔
الاقوود۔ سدا ہوا تابعدار گھوڑا۔ مضبوط گردن والا۔ بخیل۔ کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے والا اور یا نہ رہنے والا (۔۔۔ وَالْمَقْوُودُ لِبَا پھاڑ۔

القائد۔ تاج قواد و قواد و قَادَةٌ حَجَّ قَادَاتٍ۔
مستطیل زمین یا پھاڑ۔ پھاڑ کی چوٹی۔

القائِدة۔ قائد کا مؤنث۔ زمین پر پھیلا ہوا نیل۔
کہا جاتا ہے ”أَعْظَاهُ مَقَادَتَهُ“ یعنی وہ اس کا فرمایا ہوا ہو گیا۔

المقوود۔ جانور کو کھینچنے کی رتی۔ ح مقواد۔
المقوود۔ مضع اور مقوود بھی اصل کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔

ظَرْبٌ مُنْقَادٌ۔ سیدھا راستہ۔
قَادٌ يَقْوُزُ قَوْزًا۔ بچوں کے بل چلنا۔

الضَيْدُ قَرِيبٌ دَعَى كَرَشًا كَرْنَا فَلَانًا :
آگے چھوڑنا (۔۔۔ وَقَوْرٌ تَقْوِيْرًا وَانْقَاْرٌ
اِنْقِيَاْرًا وَانْقَوْرٌ اِنْقِيَاْرًا) الشَّيْءُ : كَوْلٌ كَانَا۔
اِنْقَاْرٌ الرَّجُلُ : حَتْمٌ هُوَا۔ اِنْقَاْرٌ حَلْبِيْنُهُمْ :
كُودٌ كَرِيْدٌ كَرْنَا۔

قَوْرٌ يَقْوُزُ قَوْزًا الرَّجُلُ : كَانَا هُوَا۔
تَقْوُزُ السَّحَابِ : بَادِلُوْنَ كَالْعِيْمَةِ عَلِيْمَةٌ كَوْلٌ
كَلْرٌ هُوَا۔ النَّيْلُ : اَكْثَرُ شَرَاتٍ كَزْرَجَانَا
الْحَيْتَةُ : سَانِبٌ كَانَتْ لِي بَارَنَا۔

اِنْقَاْرٌ اِنْقِيَاْرًا۔ وَاْرَحٌ هُوَا۔ اِنْقَاْرَاتُ
الْبَشْرِ : كَوْنِيْسٌ كَامْتَدَمٌ هُوَا۔ وَاِرَانٌ هُوَا۔ اِنْقَاْرٌ
يَهْ بَاكُلٌ هُوَا۔

اِقْوُزٌ اِقْوُزًا۔ اِقْوُزٌ : كُغُوْرٌ كَاوْبِلَا هُوَا
الْحِجْلُدُ : رُبْلٌ يَهْ يَنْ كِي وَجْهٌ سَعْمَرِي پڑنا۔
اِقْوُزَاتُ الْاَرْضِ : رَوْنِيْدِي كَا جَا تَارْمَنَا
فُلَانٌ : مَوْنَا هُوَا۔

القار۔ تار کول۔ سیاہ رنگ کا ایک روغن جس

کو کشتی وغیرہ پر ملتے ہیں۔ ایک کڑوا درخت۔ واحد
قَارَةٌ۔ اوتوں کا بڑا گد۔

القوڑ۔ مہ۔ نئی زوئی۔ زوئی کی رتی۔

القازة۔ پھاڑوں سے علیحدہ چھوٹا پھاڑ۔ مادہ رچھ۔

ح قازو قازات و قوڑو قیزان۔

الاقوڑ۔ کشادہ۔ مؤنث قوزاء۔

الاقوڑات و الاقوڑون۔ بڑی بڑی مہبتیں۔

المقوڑ۔ مضع۔ قارلا ہوا۔ زبلا گھوڑا۔

قَوْرٌ تَقْوِيْرٌ النَّبِيْتُ : جَانَا تَا كَالْفَرْحِ هُوَا۔

تَقْوُزُ النَّبِيْتُ : كُغْرٌ كَامْتَدَمٌ هُوَا۔

الْوَعْلُ : پھاڑی بکرے کا دوڑنا۔

اِقْتَاْرَةُ التَّمْرِ : حَبِيْبَةٌ كَا پھاڑ کھانا۔

قَاْسٌ يَقْوُشُ قَوْمًا الْقَوْمُ : سَابِقٌ هُوَا۔ آگے

بڑھنا۔۔۔ الشَّيْءُ عَلَيَّ غَيْرِيَهْ وَهْ : نَمُوْنَةٌ پَر

اندازہ کرنا۔

قَوْمٌ (س) قَوْمًا وَتَقْوَمٌ وَاسْتَقْوَمَ
الرَّجُلُ : خَيْرِيَهْ پِشْتٌ هُوَا۔ وَتَقْوَمَتِ السَّحَابَةُ :
بَارَشٌ هُوَا۔

قَاْوَسِيْنِي فَنَسِيْتُهُ اَقْوَمُهُ اس نے کمان کے
عمدہ ہونے میں مجھ سے مقابلہ کیا میں غالب رہا۔

تَقْوَمٌ : مڑا ہوا ہونا۔ کمان کی مانند ہونا۔

قَوْمَةٌ : کمان اُشٹا۔۔۔ ه الشَّبِيْبُ :

بڑھاپے کا لالوں کا بچھری کرنا۔

اِقْتَاْسُ الشَّيْءِ : اندازہ کرنا۔۔۔ بِفُلَانٍ :

اِقْتَاْرٌ كَرْنَا۔

القوس۔ مہ۔ کمان۔ مؤنث ہے اور کبھی مذکر بھی
استعمال کرتے ہیں اور اس کی تفسیر قُوَيْسَةٌ
وَقُوَيْسٌ اَوْ رَجُلِيْنِيْسِي وَفَيْسِي وَاقْوَاْسٌ وَفَيْسَا
وَاقْوُشٌ وَاقْوَاْسٌ اَوْ رَجُلِيْنِيْسِي كَيْلِيْهِ فَيْسُوْجِيْ۔ اور

قوس کی اضافت شخص کی طرف ہوا کرتی ہے۔

جیسے قَوْسٌ نَدْفٌ وَقَوْسٌ نَيْلٌ وَغَيْرُهُ۔ القوس :

ہر مٹھی چیز جو کمان کی طرح ہو۔ قَوْسٌ قَوْحٌ :

دھتک۔ زراع۔ قَوْسُ الرَّجُلِ : جَمَلٌ هُوَا يَهِيْءُ۔

القوس۔ راہب کا صومہ۔ شکاری کا جھونپڑا۔

الاقوس۔ خمیدہ پشت۔ بلند ریت کا ڈھیر۔ نَيْلٌ

القوس : بہت تاریک رات۔ بَلْدَةُ الْقَوْسِ : دُوْرٌ كَا

شمر (۔۔۔ وَالْقَوْسُ وَالْقُوَيْسِيُّ) مِنَ الْاَيَّامِ :

سخت اور لمبا دن۔

القَوَاْسُ۔ کمان والا۔ کمان گر۔ کمان چلانے
والا۔ والقَوَاْسُ : پادری یا سفیر کا خادم۔ جن کی
خاص وردی ہوتی ہے۔

القوايس۔ کمان کا درست کرنے والا۔

(۔۔۔ وَالْمَقْوَاْسُ) كُغُوْرٌ كُوْجَا نِيْهِ وَاللَّـ

الْقُوَيْسُ وَالْقُوَيْسَةُ۔ قوس کی تفسیر۔ ایک قسم

کی نباتات۔

المقوس۔ کمان رکھنے کا تھیلہ۔ میدان۔ رتی

کہ جس سے گھوڑوں میں گھوڑوں کی صفت

بندی کی جاتی ہے۔ وہ مقام جہاں سے گھوڑوں

میں گھوڑے دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ح

مقواس۔

تَقْوَصَرٌ۔ بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

القوضرة۔ کھجور وغیرہ رکھنے کا بائس کا بنا ہوا

ٹوکرا۔

قَاْوَسٌ يَقْوُضُ قَوْضًا وَقَوْضُ الْبِنَاءِ :

عِمَارَتٌ ذُمَا۔ قَوْضُ الصُّفُوْفِ وَالمَجَالِيْسِ :

تَزِيْرٌ كَرْنَا۔ مَشْتَرِكْنَا۔ بُوْلَتِيْ هِيْ ”هَنْبِيْ فُلَانٌ لِنَمِ“

قَوْضٌ ”بِجَدِ كُوْنِيْ بِلَا نِيْ كَالْبَدْرِ اِيْنِي كَرْنَا۔“

تَقْوَضٌ۔ آنا جانا۔۔۔ الخلق او

الصفوف : حلقہ یا صفت کا پرانہ ہونا۔

وَانْقَاْضُ الْبِنَاءِ : عِمَارَتٌ كَا كَرَجَانَا۔ مَتَدَمٌ هُوَا۔

القواط۔ کبریوں کا ریوڑ۔ ح اقواط۔

القوطة۔ بڑا ٹوکرا۔

القواط۔ کبریوں کے ریوڑ کو چرانے والا۔

القوطة۔ گری۔

قَاعٌ يَقْوُضُ قَوْعًا۔ بِيْحِيْ رِيْمَا۔ بِيْحِيْلِيْ پَاوِسُ لُوْشَا

۔۔۔ وَتَقْوُضُ (كَا نِيْ دَارٌ جَدِيْ فِيْ سَلِيْهِ دَا لِيْ كِي

طَرِحٌ بِيْحِيْلِيْ جَانَا)۔

القاع۔ پست ہوا پھاڑ اور ٹیلوں سے دور

دالی زمین۔ ح اقواع و اقوع و قيعان و قيعانة۔

القوع۔ مہ۔ گیسوں، کھجور وغیرہ کے خشک

کرنے کی جگہ۔ ح اقواع۔

القاعة۔ مکان کا صحن۔ ح قاعات۔

القواع۔ بلبلائے والا بھڑیا۔

القواع۔ خرگوش۔ مؤنث قواعاة۔

قَاْفٌ يَقْوُفُ قَوْفًا وَاقْفَاْفٌ اَتْرُفْلَانٌ : جِيْرِي

کرنا۔ چپے جانا۔

تَقَوَّفَ أَثْرَ فُلَانٍ : کھوج لگانا۔ تلاش کرنا۔

_____ هِ فِي الْمَجْلِسِ : بات کرنی سکھانا۔ کلام کی اصلاح کرنا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ يَتَقَوَّفُ عَلَيَّ مَا لِي“ وہ میرے مال کو مجھ سے روکتا ہے۔

القواف : قافیا۔ قافیا شناس۔ وہ شخص جو کسی کے اعضاء کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ فلاں نسب سے ہے۔ ج قافاة (_____ والقواف والقواف) کھوج لگانے والا۔

الأقواف : اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ أَقْوَفُ النَّاسِ لِأَثَرِ“ وہ لوگوں میں نشانات کا زیادہ کھوج لگانے والا ہے۔

القَوِّف : کان کا بالائی حصہ۔

القَوِّفِيُّ : ہر خوشبودار دروہنی۔

القاف والقواف والقوفاة من الرقبة : فقرہ گردن کے بال۔ اور کہا جاتا ہے ”أَخَذْتُهُ بِقَوِّفِ رَقَبَتِهِ“ میں نے اس کی پوری گردن پکڑ لی۔

قَامَتْ تَقَوُّفٌ قَوْفًا : الدجاجة : مرغی کا کوز کرنا۔

القاق : بیوقوف (_____ والفوق والقیق)

بين الرجال : بہت زیادہ لبا۔ القاق والفوق : ایک آپری بندہ۔

القائقی : بسی کشی۔

القاروق : ایک قسم کی بسی ٹوپی جو ممالک عجم میں مستعمل ہے۔ ج قواویق (دخیل)

قَوَّاتٌ قَوْفًا الدجاجة : مرغی کا کوز کرنا۔

القوفاة : ایک قسم کا پرندہ جو آجاڑ جھموں میں رہتا ہے۔

قَوِّفٌ قَوْفَةٌ الرَّجُلُ فِي الْجَبَلِ : پہاڑ پر چڑھنا۔

قَوِّفِي قَوْفًا وَقِيَمًا : چننا۔ چلنا۔

قَالَ يَقُولُ قَوْلًا وَقَالَ وَقِيَلًا وَقَوْلَةً وَمَقَالًا

ومقالة : کہا۔ بولنا _____ بکذا : حکم کرنا

اعتقاد رکھنا _____ پیندہ : ہاتھ جھکا کر پکڑنا۔

پڑا بہ : اشارہ کرنا _____ پر جگہ چلنا _____

عنتہ : روایت کرنا _____ علیہ : انشاء کرنا۔

تسمت لگانا _____ الحافظ : دیوار کا گرنا

لَهُ : خطاب کرنا _____ فیه وعنه : اجتمار

کرنا _____ بغویہ : کپڑے کو بند کرنا _____ یہ : محبت کرنا اور اپنے لیے خاص کرنا۔

القَوْمُ بِفُلَانٍ : قتل کرنا اور مَاتَ وَعَلَبَ وَمَالَ وَأَقْبَلَ وَإِسْتَرَحَ کے معانی میں بھی مستعمل ہے اور افعال کی تیاری کو بھی قول سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ”قَالَ فَاتَّكَلَّ قَالَ فَضَرَبَ“ وغیرہ۔ اور ظن کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسی کا عمل کرتا ہے بشرطیکہ مخاطب کا سینہ اور فعل مستعمل ہو اور اس سے پہلے استفہام ہو اور

استفہام اور فعل کے درمیان ظرف کے علاوہ کسی اور چیز کا فاصلہ نہ ہو۔ جیسے ”اتَّقَوْلُ زَيْدًا مُنْظَلِقًا“

بمعنی ”انظمتہ مُنْظَلِقًا“ اور بعض کے نزدیک ظن کے معنی میں بلا کسی شرط کے مستعمل ہے چاہے استفہام ہو یا نہ ہو۔ سینہ مخاطب کا اور فعل مستعمل کا ہو یا نہ ہو جیسے ”فَلْتُ زَيْدًا مُنْظَلِقًا“ بمعنی

”فَلْتُنْتُ“۔

قَوْلٌ وَأَقَالُ إِقَالَةً وَأَقُولُ إِقْوَالًا : فُلَانًا مَا لَمْ يَقُلْ : غلط قول کی نسبت کرنا۔ نہ کسی ہوئی بات کو منسوب کرنا۔ وَقَوْلُهُ : بات کہنے کی تعلیم دینا یا حکم دینا۔

قَاوَلُهُ مَقَاوَلَةً فِي الْأَمْرِ : مباحثہ کرنا۔

تَقَوَّلَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ : جھوٹ کھڑا کرنا۔

تَقَاوَلُوا فِي الْأَمْرِ : نکت و شنید کرنا۔

إِقْتَالَ الشَّيْءَ : پسند کرنا _____ عَلَيْهِمْ : حکم لگانا۔

بِالْقَوِّبِ قَوِّبًا : کپڑے کو کپڑے سے بدل لینا۔

القَالُ والقَيْلُ : مہ۔ گفتگو۔ القَالُ : ابتدا یا سوال۔ کہنے والا۔ جیسے ”رَجُلٌ قَالٌ“ بمعنی قابل۔

القَيْلُ : جواب۔

القَيْلُ : رئیس۔ حیر کے بادشاہ کا لقب۔ ج

أَقْوَالٌ وَأَقْبَالٌ وَقِيَلٌ

القَوْلُ : کلام یا ہر ایک لفظ۔ ج أقوال ج

أَقَاوِيلُ

القَائِلُ : ج قول وقیل وقالة وقوول۔

القالة والقولة والمقال والمقالة : گفتگو۔

المقالة : کتاب کا ایک ٹکڑا۔ والقالة : لوگوں کے اندر بڑی یا بسلی پھیلی ہوئی بات۔ دوپہر کا قیلولہ۔

القولة والقوال والقوالة والقوول والقوول

ج قَوْلٌ وَقَوْلٌ وَالْقَوْلَةُ وَالْقَوْلَةُ : خوش بیان۔ بہت بولنے والا۔ القَوَالُ : گویا۔ ج قَوَالُونَ۔

المِقْفُولُ والمِقْفُولُ : اچھی گفتگو کرنے والا۔

تَمِزُ زَبَانَ : المِقْفُولُ : زبان ج مقاول ومقاولة

إِمْرَأَةٌ مَقْفُولٌ وَمَقْفُولٌ : اچھی گفتگو کرنے والی

تَمِزُ زَبَانَ عورت۔

المَقْفُولُ والمَقْفُولُ : مضم۔

كَلِمَةٌ مَقْفُولَةٌ : بار بار کہا ہوا کلمہ۔

قَوْلُونَ : ایک آنت کا نام۔

قَامَ يَقْوُمُ قَوْمًا وَقَوْمَةً وَقِيَامًا وَقَامَةً : کھڑا ہونا۔ ٹھہرنا۔ چلنے والے سے تم کہتے ہو ”قَمْلِي“

یعنی میری وجہ سے ٹھہرو۔

الصَّاءُ بِيَانِي كَامِفْعَلَةٌ بِيَانِي : قَامَتْ بِه

ذَابْتَهُ : تھک جانا۔ قَامَ مِيزَانُ النَّهَارِ : دوپہر ہونا

_____ الْأَمْرُ : احتمال پر ہونا _____ الصَّاءُ بِيَانِي

كَا جَمَّ جَانَا : قَامَتْ السُّوقُ : بازار کا رائج ہونا۔ قَامَ الْكَلَا : گھاس کا ظاہر ہونا _____

الصَّمَاعُ بِه : قیمت برابر ہونا _____ عَلَى الْأَمْرِ :

مداومت کرنا _____ بِه ظہورہ : دردمند کرنا

_____ بِالْأَمْرِ : انتظام کرنا _____ عَلَى الْأَمْرِ :

گمبھالی کرنا _____ عَلَى غَرْبِهِ : قرض دار سے

مطالبہ کرنا _____ فِي الصَّلَاةِ : شروع کرنا

_____ أَهْلُهُ : اہل و عیال کی ضروریات کو پورا

کرنا۔ کہا جاتا ہے ”قَامَ يَفْعَلُ كَذَا“ یعنی ایسا

کرنے لگا۔ قَامَتِ الصَّلَاةُ : نماز شروع ہو گئی۔

اور کہا جاتا ہے ”قَامَ بِي وَقَعْدٌ“ یعنی میرے

متعلق بڑی خبریں پھیل گئیں۔

قَوْمُ الشَّيْءِ : سیدھا کرنا اور اسی سے تَقْوِيمُ

البُئْدَانِ ہے جس کے معنی ہیں شہروں کا طول و

عرض بیان کرنا۔ قَوْمٌ ذَرَأَةٌ : بچی کو ذور کرنا۔

الصَّمَاعُ : قیمت لگانا۔

قَاوِمَةٌ قَوَامًا وَمَقَاوِمَةٌ : ساتھ کھڑا ہونا۔

مخالفت کرنا۔ قائم مقام ہونا۔

أَقَامَهُ إِقَامَةً وَقَامَةً : کھڑا کرنا۔ أَقَامَ الْمَائِلِ او

الْمُنْعُوخِ : سیدھا کرنا اور تَجِبَ کے موقع پر کہا

جاتا ہے ”مَا أَقْوَمُهُ“ اور یہ مزید سے آنے کی وجہ

سے شاذ ہے۔ أَقَامَ الشَّيْءَ : ہمیشہ رکھنا _____

بِالْمَكَانِ : وطن بنا لینا۔ أَقَامَتْ كَرْنَا

الحق: حق ظاہر کرنا۔ الصلوة: کامل طریقہ سے ادا کرنا۔ للصلوة: اقامت کنا۔ السؤی: راجح رکھنا۔ بازار لگانا۔

تقاوم: سیدھا ہونا۔ کہا جاتا ہے "قَوْمُهُ فَتَقْوَمُ" میں نے اسے سیدھا کیا وہ سیدھا ہو گیا۔

تَقَاوَمَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ: قیمت کا اندازہ لگانا۔ تَقَاوَمُوا فِي الْحَزَبِ: بعض کا بعض کیلئے کھرا ہونا۔

إِقْتَامًا قِيَامًا نَفْعًا: ناک کاٹنا۔ اسْتِقَامًا اسْتِقَامَةً: سیدھا ہونا۔ کہا جاتا ہے "اسْتِقَامَ لَهُ الْأَمْرُ" معاملہ اس کیلئے ٹھیک و درست ہو گیا۔ الْمَتَاعُ: سامان کی قیمت لگانا۔ الشُّعْرُ: شعر موزوں ہونا۔

القَوْمُ: لوگوں کی جماعت۔ حِجَاقُومٍ وَأَقَاوِمٍ وَأَقَائِمٍ وَأَقَاوِمِ قَوْمِ الرَّجُلِ: قریبی رشتہ دار جو ایک دادا میں شریک ہوں۔ القَوْمُ: دشمن حِجَاقِيمَانِ () والقَوْمُ: کسی جگہ میں اقامت کرنا۔ القَوْمُ: ارادہ۔

القَوْمَةُ: مہ۔ قَامَ كَأَسْمَ مَرَّةٍ: قامت انسان۔ رُكُوعٌ أَوْ رُكُوعٌ كَعَدَمِهِ: قوام۔ اَعْتَدَالٌ: قَوَامٌ الْإِنْسَانِ: تدو قامت۔

القَوَامُ وَالْقَوَامُ: گزارہ۔ زندگی۔ قَوَامُ الْأَمْرِ وَقِيَامُهُ: ایسے درستی۔ جس سے کسی چیز کا قیام ہو اور کہا جاتا ہے "هُوَ قِيَامُ أَهْلِهِ وَقَوَامُهُمْ" وہ اپنے اہل و عیال کیلئے سارا ہے۔

القَوَامُ: سیدھا۔ کہا جاتا ہے "زَمَحَ قَوَامٌ": سیدھا تیز۔ القَوَامُ: ایک بیماری جو جانوروں کی ٹانگ میں ہوتی ہے۔

القائمة: مہ۔ لوگوں کی جماعت۔ مِنْ الْإِنْسَانِ: قَدَحَ قَامَاتٍ وَقِيمَ: چرخی مع سامان کہا جاتا ہے "اسْتَقَامَ عَلَى الْقَائِمَةِ" انہوں نے چرخی پر پالی اٹھیا۔ حِجَاقِيمِ: القِيَامَةُ: موت کے بعد اٹھنا۔ یَوْمَ قِيَامَتِ: قبروں سے اٹھنے کا دن۔ القِيَمَةُ: قدم کا اسم نوع۔ قیمت۔ حِجَاقِيمِ قِيَمَةُ الْإِنْسَانِ: انسانی قد۔

القِيَمَةُ: قیمت کی طرف منسوب۔ الإقائمة: مہ۔ إقائمة الجندی: فوج کی ڈیوٹی۔ حِجَاقِيمَاتٍ: اور کہا جاتا ہے "ظَلَى بِسَاطِ الإقائمة" یعنی کوچ کیا۔

التقويم: مہ تقویم البلدان: ممالک کے طول و عرض اور زمین کے خراج کا بیان۔ التقويم: جنسی۔ حِجَاقِيمِ: القِيمَةُ عَلَى الْأَمْرِ: متولی۔ منتظم۔ مَوْتٌ قِيَمَةُ قِيمِ الْمَرْأَةِ: شوہر۔ أَمْرٌ قِيمِ: سیدھا معاملہ۔ الدَيَانَةُ الْقِيَمَةُ: راست بازی۔ کہا جاتا ہے "ذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ" صفت مؤنث اس وجہ سے ہے کہ دین سے فرادلت خینی ہے۔

القائم فاج قَوْمٍ وَقِيمٍ وَقَوَامٍ وَقِيَمٍ وَقِيَمٍ: قائم۔ قائم السيف: تلوار کا قبضہ۔ قائم الصياء: پانی کے لیے بلند عمارت جہاں سے پانی تقسیم ہو۔ واژورکس۔

القائم مقام عند آذباب السيتاسيه: نائب۔ حِجَاقِيمَاتٍ: القائم۔ قائم کا مؤنث حِجَاقِيمَاتٍ وَقَوَائِمِ قَائِمَةُ السيف: تلوار کا قبضہ۔ قَائِمَةُ الدَابَّةِ: جانور کی ٹانگ اور اسی سے ہے قَائِمَةُ الخَوَانِ أَوْ السُّورِ: دسترخوان یا تخت کا پایہ۔ حِجَاقِيمِ: القَائِمَةُ: کتاب کا ورق۔ العَيْنُ الْقَائِمَةُ: ایسی آنکھ جس کی بصارت زائل ہو چکی ہو اور ڈھیلا اپنی جگہ پر قائم ہو۔

قَوْمِيَّةُ الْأَمْرِ: معاملہ کی درستی۔ قَوْمِيَّةُ الْإِنْسَانِ وَقَوْمِيَّتُهُ: قامت انسان۔ القَوَامُ: اچھے تدو قامت والا۔ أَمْرٌ كَانَتْظَمَ: اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ حِجَاقِيمُونَ: القويم: معتدل۔ اچھے تدو قامت والا۔ حِجَاقِيمِ: القِيَامُ وَالْقِيَمَةُ: ہر چیز کا نگہبان۔ بے عمل و بے ہمتا۔ وہ ذات جو ابیدی ہو اور قائم برزخ ہو۔ القِيَمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمے حسنیٰ میں سے ہے۔

الْقَوْمُ: اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ حِجَاقِيمُونَ: القويم: معتدل۔ اچھے تدو قامت والا۔ حِجَاقِيمِ: القِيَامُ وَالْقِيَمَةُ: ہر چیز کا نگہبان۔ بے عمل و بے ہمتا۔ وہ ذات جو ابیدی ہو اور قائم برزخ ہو۔ القِيَمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمے حسنیٰ میں سے ہے۔

القَوْمُ: اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ حِجَاقِيمُونَ: القويم: معتدل۔ اچھے تدو قامت والا۔ حِجَاقِيمِ: القِيَامُ وَالْقِيَمَةُ: ہر چیز کا نگہبان۔ بے عمل و بے ہمتا۔ وہ ذات جو ابیدی ہو اور قائم برزخ ہو۔ القِيَمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمے حسنیٰ میں سے ہے۔

القَوْمُ: اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ حِجَاقِيمُونَ: القويم: معتدل۔ اچھے تدو قامت والا۔ حِجَاقِيمِ: القِيَامُ وَالْقِيَمَةُ: ہر چیز کا نگہبان۔ بے عمل و بے ہمتا۔ وہ ذات جو ابیدی ہو اور قائم برزخ ہو۔ القِيَمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمے حسنیٰ میں سے ہے۔

القَوْمُ: اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ حِجَاقِيمُونَ: القويم: معتدل۔ اچھے تدو قامت والا۔ حِجَاقِيمِ: القِيَامُ وَالْقِيَمَةُ: ہر چیز کا نگہبان۔ بے عمل و بے ہمتا۔ وہ ذات جو ابیدی ہو اور قائم برزخ ہو۔ القِيَمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمے حسنیٰ میں سے ہے۔

ہونے کی جگہ۔ کھڑے ہونے کا زمانہ۔

المقامة: مجلس۔ سرداری۔ لوگوں کی جماعت۔ خلبہ یا عطا روایت جو لوگوں کے مجمع میں بیان کی جائے۔ حِجَاقِيمَاتٍ: اور اسی سے ہے۔ مقامات بدیسی مقامات حریری وغیرہ۔

المقوم: بل کا دستہ۔ المقامة: کھرا ہونا۔ لوگوں کی جماعت۔ وطن اقامت۔

المقوم: فا۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا أَمْرٌ مُقِيمٌ وَمُقِيمٌ" یہ معاملہ اضطراب انگیز ہے۔ تَقْوَى الرَّجُلِ: ظلم کرنا۔ زبان درازی کرنا۔ حد سے گزرتا۔ تَقْوَى الرَّجُلِ: اچھی تعریف کرنا۔

القوة: لوہے یا تانبے کا ٹکڑا جس سے برتن کو جوڑتے ہیں۔ حِجَاقِيمُونَ: القان: ایک درخت ہے جس سے کماٹیں بناتے ہیں۔

القائون: کلری کی ایک قسم۔ قُوَّةُ تَقْوِيهَا الرَّجُلُ: چلانا۔ الصبغة: گھیرا ڈالنا۔

تقاوة: الرجلان: صبر خالصتارفا: نشان مقررہ سے ایک دوسرے کو چلا کر پہنچانا۔ اسْتَقْوَاهُ: جھکار کا گھیرا ڈالنے کیلئے کرنا۔

أَيْقَهُ: اطاعت کرنا۔ بھٹا۔ کہا جاتا ہے "أَيْقَهُ لِهَذَا" یعنی اس کو سمجھو۔ أَيْقَهُ: اسْتَقْوَاهُ: اطاعت کرنا۔ اور یہ دونوں اَوْقَاهُ: اسْتَقْوَاهُ کے مقلوب صیغے ہیں۔

القاه: طاعت۔ عزت۔ مرتبہ۔ خوش حال زندگی۔ اور کہا جاتا ہے "مَالِكَ عَلَى قَاه" تم کو میرے اوپر کوئی قدرت نہیں۔

القاهي: خوش حال زندگی والا۔ قَوِيٌّ وَقَوِيَّةٌ قُوَّةٌ: تواتر ہونا۔ مضبوط ہونا۔ عَلَى الْأَمْرِ: طاقت رکھنا (قَوِيٌّ) بہت بھوکا ہونا۔ الْمَطْرُ: بارش بند ہونا۔ قَوِيَّتُ قِيَامُ قِيَامَةِ الدَّارِ: گدا کا خالی ہونا۔ قَوِيٌّ الرَّجُلِ أَوْ الشَّيْءِ: مضبوط کرنا۔ قَاوِيٌّ مَقَاوَاةُ الرَّجُلِ: طاقت میں غالب ہونا۔ تم کہتے ہو "قَاوَانِي قَقْوِيَّةٌ" اس نے مجھ

سے قوت میں مقابلہ کیا میں غالب ہوگیلو قازاؤہ :
رہتا۔

القوی القواء۔ تخرج ہونا۔ چٹیل میدان میں
آرتا۔ مالدار ہونا۔ مضبوط جانور والا ہونا۔ القوت
الذائر: رہنے والوں سے خالی ہونا۔ القوی
القوم: قوم کا توشہ ختم ہونا۔ الزجل:
بھوکا ہونا اور کھانے کو کچھ نہ ہونا۔ القوی
الثقیفة: خلی کرنا۔ القوی الشجر: اشعار کے
قوتی کو اعراب میں مختلف کرنا۔ الحبل:
رستی کو چلباسو ماننا۔

تقوی: قوی ہونا۔ مضبوط ہونا۔
تقاروی تقاروا: بھوکے رات بسر کرنا۔ القوم
المتاع يتنهم: قیمت بڑھانا یہاں تک کہ استثنائی
قیمت پر پہنچنا۔ القوم الذل: سب کا ڈول
کے خسر پر منہ لگا کرینا۔

القوی القواء: المتاع: قیمت بڑھانے کے
بعد خریدنا۔ شیطا بشی: تبدیل کرنا
_____ علی فلان: عتاب کرنا _____
الزجل: مضبوط اور قوی ہونا۔ الشی:
اپنے لیے خاص کرنا۔

استقوی استقواء: قوی ہونا۔
القواء والقواء: ج. اقواء۔ القی والقویۃ
والقوی: خلی اور چٹیل میدان۔ القواء
والقویۃ بے بارش کی زمین۔ منزل قواء:
منزل جس میں کوئی انیس نہ ہو۔

القواء والقوی: بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات
المقواء او القوی" بھوکے رات بسر کرنا۔
القوة: زور۔ طاقت۔ توانائی۔ ج. قواست قوی
وقوی: رستی کی لڑی۔ ج. قوی۔ القوی: عمل۔
القواوی۔ قا۔ پکڑنے والا۔ لینے والا۔ بلد قواوی۔
خلی شہر۔

القویۃ۔ مؤنث قاوی۔ انزا۔ کم بارش کا
سال۔ ایل قواویات: بھوکے اونٹ۔
التقاوی۔ مہ۔ تقاوی الأمطار: بارش کی
قلت۔

القوی۔ مضبوط۔ زوردار ج. اقویاء:
المقوی۔ قا۔ القرض المقوی: مضبوط گھوڑا
بلد مقوی: شہر جو بارش سے خالی ہو۔

قَاءَ يَقِي قِيَاءً مَا أَكَلَهُ: تے کرنا۔ صفت قاتمی
قَاءَتِ الظَّمَةُ الدَّم: نیرہ کا خون بہانا۔ کہا جاتا ہے
قَاءَتِ الْأَرْضُ الكُمَّةَ: ساق کی چمتری کو
آکنا۔ قَاءَ الزَّجْلُ نَفْسَهُ: مرنا۔

قِيَاءً تَقِيَةً وَأَهَاءً إِفَاءً فَلَانَا مَا أَكَلَهُ: تے
کرنا۔
تَقِيًا تَقِيًا وَاسْتَقَاءً اسْتِقَاءً بِكَلْفٍ تے
کرنا۔

القِيَاءُ: تے۔ تے آوردوا۔
القِيَاءُ والقِيَاءُ: بہت تے کرنے والا۔
المَقِيِي: تے آوردوا۔

القِيَارُ والقِيَارَةُ: ج. قِيَارِي والقِيَارِ
والقِيَارَةُ: ج. قِيَارِي: سارگی۔
قَاَحٌ يَقِيحُ قِيحًا وَقِيحٌ وَأَقَاَحٌ وَتَقِيحٌ
الجُوحُ: زخم کا پیپ والا ہونا یا پیپ بہنا۔

القِيحُ: پیپ۔ پیپ جس میں خون کی آمیزش نہ
ہو۔
قِيَدُ الزَّجْلِ: بیزی ڈالاجانا۔
قِيَدُهُ تَقِيْدًا: بیزی ڈالنا۔ روکنا۔ ہ:

بِالْإِحْسَانِ: احسان مند بنانا۔ قِيَدُ الْكِتَابِ:
اعراب لگانا۔ الکاتب والمتكلم: کلام کو
کسی قید سے متید کرنا۔ الحساب: حساب
لکنا۔ الحظ: نطق اور اعراب لگانا۔
تَقِيْدُ: بیزی میں ہونا۔ زکنا۔

القِيْدُ: جانور کے پاؤں باندھنے کی رستی وغیرہ۔ ج.
قِيُوْدٌ وَأَقْيَادٌ۔ قِيْدُ الْأَسْتِنَانِ: مسوڑھا۔ کہا جاتا
ہے "قُرْسٌ قِيْدُ الْأَوْبِدِ" تیز رفتار گھوڑا۔ یعنی
اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے وحشی جانوروں کے
لیے قید کی مانند ہے کہ وہ ان کو بھاگنے سے روک
دیتا ہے۔

القِيْدُ والقِيْدُ والقَادُ: اندازہ۔ کہا جاتا ہے
"يَتَقِيْدُ مَا قِيْدُ رُحٍ أَوْ قَادُ رُحٍ" ان دونوں کے
درمیان ایک نیرہ کی مقدار ہے۔
القِيَادُ: رستی۔ جس سے جانور کو کھینچا جائے۔
القِيَادِيْنِ الخَيْلِ أَوْ الْإِبِلِ: سدھاہوا۔ کابعدار
گھوڑا یا اونٹ۔

المَقِيْدُ: مہ جانور کے پاؤں میں رستی باندھنے
کی جگہ۔ ج. مَقِيْدٌ: بازب پسنے کی جگہ۔ کیتاب

مَقِيْدٌ: اعراب لگی ہوئی کتاب اور کہا جاتا ہے
"أَمْرًا مَقِيْدًا الخِمَارُ" یعنی آزاد عورت و بیٹو
مَقِيْدٌ: بہت سے چھوڑا۔ وَأَرْضٌ مَقِيْدَةٌ الحِمَارُ:
زمین سگانا۔

قِيَرُ الشَّيْ: کسی چیز کا رملنا۔
إِقْتَارُ الْحَدِيثِ: بحث کرنا۔ کھود کرید کرنا۔
القِيَرُ والقَارُ: سیاہ رنگ کی ایک چیز جس کو
کشتی پر ملتے ہیں تاکہ پانی اندر نہ آئے۔

القِيُوْرُ: کتاب۔ غیر معروف القتب۔ کہا جاتا ہے
"هَذَا الْقِيْرُ مِنْ ذَاكَ" یہ اس سے زیادہ کڑوا
ہے۔

القِيْرَاطُ: دیکھو بارہ رط۔
قِيْرَوَانُ: مغرب میں ایک شہر کا نام۔
القِيْرَوَانُ: گھوڑوں کا گلہ۔ فوج کا بڑا حصہ۔
قَالَه: ج. قِيْرَوَانَاتُ (دخیل)

قَاسٌ يَقِيْسُ قِيْسًا وَقِيْسًا: ناز سے چلنا۔ بھوکا
ہونا۔ ہ: سابق ہونا (قِيْسًا)
الطِّيْبُ قَعْرُ الْجَرَاخَةِ: زخم کی گہرائی ٹاپنا۔
صفت قَائِسٌ _____ الشَّيْ بِغَيْرِهِ أَوْ عَلِي
غَيْرِهِ: نمونہ پر اندازہ کرنا۔

أَقَاسُ الشَّيْ بِغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ وَالْيَه: نمونہ پر
اندازہ کرنا۔

قَائِسٌ قِيَامًا وَمُقَابَسَةٌ بَيْنَ الْأَمْوِنِ:
اندازہ کرنا۔ الشَّيْ بِكَذَا وَالْيَ كَذَا:
اندازہ کرنا۔ الزَّجْلُ: اندازہ کرنے میں
مقابلہ کرنا۔ والی كَذَا: سابق ہونا۔

تَقْيِيْسٌ: قبیلہ قیس غیلان سے مشابہ ہونا۔ قبیلہ
قیس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا۔ یا قبیلہ
قیس کے حلیف ہونے یا پردوسی ہونے یا ان سے
ولاء کا تعلق ظاہر کرنا۔

إِنْقَاسٌ: اندازہ ہونا۔
إِنْقَاسُ الشَّيْ: اندازہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
يُنْقَاسُ بِأَيْتِهِ" وہ اپنے باپ کی بیروی کرتا ہے۔

القَاسُ والقِيَسُ: اندازہ۔ کہا جاتا ہے
"يَتَقِيْسُ قَاسٌ رُحٍ أَوْ قِيْسٌ رُحٍ" ان دونوں
کے درمیان ایک نیرہ کی مقدار فاصلہ ہے۔

القِيَاسُ: مہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا قِيَاسُ ذَاكَ"
یہ اس کے مشابہ ہے القیاس فی المنطقی:

وہ قول ہے جو کم از کم دو تھلیا سے مرکب ہو کہ جن کے تسلیم کر لینے سے ایک دوسرا قول لازم ہو۔

القیاسی۔ مطابق قیاس۔

القیاس۔ بہت قیاس کرنے والا۔

المقیاس۔ مقدار جس سے اندازہ کیا جاسکے۔
ج مقایس۔

القیسری۔ ج قیاسی و قیاسی۔

قیساریہ۔ قیسریہ کی تحریف ہے۔ اور یہ چند شہروں کا نام ہے۔ جو قیصرہ روم کے ناموں پر رکھے گئے تھے۔ جیسے قیساریہ فلسطین قیساریہ نیبیس۔ قیساریہ کبادویا۔

قاصت تقیض قیضا۔ السنّ: دانت کا جڑ سے گرنا۔ قاص البطن: بیہوش کا حرکت کرنا۔

انقاص و تقیض الحائظ: دیوار کا جھلنا اور گرنا۔ الفروض: داڑھ کا گرنا یا لمبائی میں پھٹ جانا۔ تقصّص البئر: کنوئیں کا گرنا۔ انقاصت البئر: پانی بہت ہونا۔ یہاں تک کہ گرنے کے قریب ہوتا۔

قاص يقیض قیضا الشئ: چھڑنا۔

الشئ: پھٹنا۔ السنّ: دانت ہلنا۔

الشئ بالشئ: مانند ہلانا۔ الشئ

من الشئ: بدلہ میں لینا۔

قیضت البئر: کنوئیں کا بہت پانی والا ہونا۔

قیض الله له كذا: مقدر کرنا۔ الله

فلانا یفلان: ہلانا۔

قايض قیاضا و مقابضه فلانا بكذا:

مبادلہ کرنا۔

تقصّص البئر: انڈے کا ٹوٹنا۔ تقصّص له

كذا: مقدر ہونا۔ سبب ہونا۔ آباء:

باپ کے مشابہ ہونا۔ (انقاص الحائظ:

دیوار گرنا۔ انقاصت الركبة أو السنّ: گھٹنیا

دانت کا لمبائی میں پھٹنا۔

تقايض تقايضا الرجلان: ایک دوسرے

سے تبادلہ کرنا۔

انقاص الشئ: جڑ سے اکھیرنا۔

القیض۔ مہ۔ انڈے کا خشک چمکانا۔

والقیاض) برابر۔ کہا جاتا ہے "هذا قیض او

قیاض لكذا" یہ اس کے برابر ہے و "هنا قیضان" وہ دونوں ہم ٹھہریں۔

القیض۔ بڑی کا چھوٹا کھانا۔ ج قیض۔

القیض والقیض۔ پتھر کہ جس کو گرم کر کے بکری وغیرہ کے نقرہ گردن پر داغ لگائیں۔

المقیض۔ انڈے کی جگہ۔ بیض مقیضہ: بہت پانی والا انڈا۔ بیضه مقیضه: توڑا ہوا انڈا۔

قايض يقیض قیظا۔ یوم: سخت گرم ہونا)

وقیظ و تقیظ و اقناظ) القوم

بالمکان: گرمی کا زمانہ گزارنا۔ قیظوا: لوگوں پر گرمی کی بارش ہونا۔ قیظہ الشئ: گرمی کے زمانہ کے لیے کافی ہونا۔

قايظ قیظا و مقايظه: گرمی کا زمانہ ساتھ گزارنا۔ موسم گرم گراہر کا معاملہ کرنا۔

القیظ۔ گرمی کی شدت۔ گرمی کا موسم۔ ج اقناظ و قیظ۔

القايظ والقیظ۔ سخت گرمی والا۔ یوم قايظ:

سخت گرمی کا دن۔ قیظ قايظ: سخت گرمی۔

القیظی: جو گرمی میں پیدا ہوا ہو۔

المقايظ والمقايظو المقیظ۔ گرمی کا زمانہ بسر

کرنے کی جگہ۔

المقايظه: گرمی تک سبز رہنے والی بھری۔

قايض يقیض قیظا۔ الخنزیر: سور کا آواز نکالنا۔

قیض و تقیض اثره: تلاش کرنا۔ کھوج لگانا۔

القیضاه: کھوج۔ تلاش۔

قايض تقیض قیظا۔ الدخاثة: مرغی کا لڑکھانا۔

القیض: بیوقوف۔ کبوتر کے برابر ایک پرندہ جس

کے بازو جھلے اور زخم کالی ہوتی ہے اور بہت بولتا

رہتا ہے اور جس کو ابو زریق بھی کہتے ہیں۔

قیض البئر: انڈے کے سخت چھلکے کے نیچے

کا باریک چمکانا۔

القیضاة والقیضاة۔ سخت زمین۔ ج قواقی

وقیاق و قیق۔

القیقب: ایک درخت کا نام۔ زین کا تسمہ۔ وہ لوہا

جس کے وسط میں وہ حصہ ہوتا ہے جو گھوڑے کے

منہ میں ہوتا ہے۔ (والقیقبان) زین۔ ایک

ککری جس سے زین بنائے جاتے ہیں۔

القیقب: کپڑے کو چمکانے کا سرہ۔

قَالَ يَقْبِلُ قَيْلًا وَقَابِلَةٌ وَقَيْلُةٌ وَمَقَالًا وَمَقِيلًا۔ دوپہر میں سونا۔ قیلًا۔ دوپہر میں

دودھ دوہنا اور پینا۔

قَيْلَةٌ۔ دوپہر میں پلانا۔

قَابِلَةٌ۔ معاوضہ میں دینا۔ جادلہ کرنا۔

أَقَالُ إِقَالَةَ الْبَيْعِ: بیع توڑنا۔

اللَّهُ عَشْرُ تَك: گرنے سے اٹھانا۔ درگزر کرنا۔

أَقَالُ الْأَيْلِ: دوپہر میں پلانا۔

تَقِيلُ۔ دوپہر میں سونا۔ آباء: باپ کے

مشابہ ہونا۔ الماء: پانی کا جمع ہونا۔ تَقِيلَتِ

الْأَيْلِ: اوتھوں کا دوپہر میں پینا۔

تَقَابِلُ الرَّجُلَانِ الْبَيْعِ: بیع کو ختم کرنا۔

إِقْتَالَ شَيْئًا بِشَيْءٍ: تبدیل کرنا۔

اسْتَقَالَ اسْتِقَالَ الْبَيْعِ: بیع کو ختم کرنے کو کہنا۔

اسْتَقَالَ عَقْرَتَهُ: بغرش معاف کرنے کو کہنا۔

القیل۔ مہ۔ رکبیں۔ حمیر کے بادشاہوں کا

لقب۔ اوتھنی جس کو دوپہر میں دوہا جائے۔

القیل والقیظول۔ دودھ جو دوپہر میں پیا جائے۔

القیظلة والقیظولة۔ اوتھنی جس کو دوپہر میں دوہا

جائے۔

القیظلة والقیظولة۔ خصیہ کا سوجنا۔

القائل۔ دوپہر میں سونے والا۔ ج قیل وقیل

وقیال۔

القابله۔ قائل کا سونٹ۔ دوپہر۔

القابله والقیظولة۔ دوپہر میں سونا۔ دوپہر

میں لینا۔

رجل قیل۔ ہمیشہ دوپہر میں سونے والا۔

الإقالة۔ مہ۔ عقد کا ختم کرنا۔

المقیل۔ مہ۔ قیلولہ کرنے کی جگہ۔ دوپہر میں

سونا لینا۔

المقیل۔ دودھ دوہنے کا بڑا برتن جس میں

دوپہر کے وقت دوہا جائے۔

ذو حجة مقیال۔ بزار درخت جس کے نیچے بہت

زیادہ لیتا جائے۔


قَالَ يَقْبِلُ قَيْلًا الْحَدِيدَ: لوہے کو برابر کرنا

_____ الإناة: برتن کو درست کرنا _____

الشئ: جمع کرنا _____ اللَّهُ فَلَانَا عَلَي كَذَا:

پیدا کرنا _____ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ: بناؤ سنگار کرنا۔

<p>القَيِّئَةُ - باندی - لوعڑی - گانے والی - کنگھی چوٹی کرنے والی - ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ - رج قبیان - المُقَيِّئَةُ - مُقَيِّئٌ - کاموٹ - کنگھی چوٹی کرنے والی عورت -</p>	<p>الرجُلُ: مزین ہوتا - القَانُ - ایک درخت ہے جس سے کماٹیں بنائی جاتی ہیں - واحد قَانَةٌ - القَيْنُ - غلام - رج قبیان _____ لوہار اور ہر کار نگر رج قُيُونٌ وَأَقْيَانٌ -</p>	<p>قَانٌ يَقِيْنٌ قِيْنَا وَ قِيَانَةٌ - لوہار ہوتا - قَيْئَةٌ - مزین کرنا - تَقَيَّنَ - مزین ہونا _____ التَّبِيْتُ: اچھا ہونا - اِقْتَانَ اِقْيَانًا التَّبِيْتُ: اچھا ہونا - الزَّوْضَةُ: باغ کا سرسبز و شاداب ہونا -</p>
--	---	--



ک۔ مخاطب اور مخاطبہ کیلئے ضمیر منصوب اور مجرور کے طور پر مستعمل ہے جیسے ضَرْبُكَ وِکْتَابُكَ وِضْرَبُكَ وِکْتَابُكَ وِضْرَبُكَ وِکْتَابُكُمْ وِضْرَبُكُمْ وِکْتَابُكُمْ وِضْرَبُكُمْ۔

(۲) حرف جار کبھی تشبیہ کیلئے جیسے زَيْدٌ كَأَنَّ سِدًّا اور کبھی تعلیل کیلئے جیسے اذْكَرُوا اللَّهَ كَمَا هَذَا كَمْ یعنی اللہ کو یاد کرو اس لیے کہ اس نے تمہاری ہدایت کی اور کبھی تاکید کے لیے اور اس صورت میں زائدہ ہوتا ہے "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ"۔

(۳) حرف غیر جار اور اس صورت میں معنی خطاب کے ہوتے ہیں اور اسم اشارہ اور ضمیر منصوب منفصل اور بعض اسماء افعال کے ساتھ لائق ہوتا ہے جیسے ذَلِكَ وَتِلْكَ وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكُمْ وَزَيْنِدَكَ۔

کَبْتُ (س) کاتبا و کاتبہ و کاتبۃ۔ غمگین ہونا۔ شکستہ دل ہونا۔ صفت کُفْتُ وِزَكَيْتُ اور مجازاً کہا جاتا ہے "أَرْضُ كَيْبِيئَةَ الْوَجْهِ"۔

اَكْتَابَ الرَّجُلُ: غمگین ہونا۔ ہلاکت میں پڑنا۔ الرَّجُلُ: غمگین کرنا۔

اِكْتَابَ: غمگین ہونا۔

اَلْكَاتِبَةُ: سخت غم۔ اِمْرَاةٌ كَاتِبَةٌ: شکستہ دل و غمگین عورت۔ کہا جاتا ہے مَا اِكْتَابَهُ: اس کا غم کس قدر شدید ہے۔

اَلْمُكْتَبُ: غمگین۔ کہا جاتا ہے "زَمَادُ مُكْتَبِ اللَّوْنِ" یعنی راکھ سیاہی مائل۔

اَلْكُوْبَةُ: ہر وہ چیز جس سے شرم کی جائے۔

كَتَّاجٌ (ف) كَاتِبًا: الرَّجُلُ: حماقت زیادہ ہونا۔

اَلْكَفَّاجُ: حماقت۔ بیوقوفی۔ كَاتَدُ (ف) كَاتَادًا: شکستہ دل و غمگین ہونا۔ غم سے بد حال ہونا۔

تَكَادَ وَتَكَادَ ذَا اَلْاَمْرِ فَلَانَا: دشوار ہونا اَلْاَمْرُ: مشقت اُتَانَا۔

اِكْوَادُ الشَّيْخِ: بڑھاپے کی وجہ سے کاہنچا۔ اَلْكَادَاءُ: غم۔ سختی۔ برہیز۔ تاریک رات۔ عَقَبَةٌ كَادَاءٌ وَكُوْؤُودٌ: دشوار گزار گھاسی۔

اَلْكُوْدَاءُ: غم یا تنہن کی وجہ سے غصہ کی سانس۔

اَلْكَأْسُ: پیالہ (مؤنث) ج كُوْؤُوسٌ وَاكْؤُوسٌ وَاكْأَسَاتٌ وَاكْأَسٌ: كَأَسُ الزَّهْوَةِ: کلی اختلاف۔ اَلْكَأَسُ: شراب۔

كَأَسُ (ف) كَأَسًا: اَلطَّعَامُ: کھانا۔

كَأَصَةٌ (ف) كَأَصًا: ذلیل کرنا۔ قلوب کرنا اَلشَّقِيُّ: بدست کھانا یا بیانا۔ کہا جاتا ہے

"كَأَصْنَا عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ مَا شِئْنَا" یعنی ہم نے اس کے پاس جو کچھ چاہا کھایا۔

كَأَسًا كَأَسًا كَأَفًا: کمزور ہونا۔ بزدل ہونا۔ پیچھے ہٹنا۔

تَكَأَسًا: بزدل ہونا اور پیچھے ہٹنا۔ اَلْقَوْمُ عَلَيْهِ: قوم کا کسی پر جمع ہونا۔ یعنی کلامیہ: گفتگو میں عاجز و در ماندہ ہونا۔

اَلْكَأَتَاءُ: بزدلی۔ جو رکی بھاگنے کے وقت کی دوڑ۔

اَلْمُتَكَاتِبِيُّ: قابستہ قد۔ كَاتَلٌ (ف) كَاتَلًا وَكَاتَلَةٌ وَكُوْؤُلًا: قرض کے بدلے میں قرض خریدنا یا بیچنا۔ مثلاً ہمارا قرض کسی کے ذمہ ہو تو ہم اپنے قرض کو اس کے قرض سے بچ لو۔

اَلْمُتَكَاتِبِيُّ: قابستہ قد۔

كَاتَلٌ (ف) كَاتَلًا وَكَاتَلَةٌ وَكُوْؤُلًا: قرض کے بدلے میں قرض خریدنا یا بیچنا۔ مثلاً ہمارا قرض کسی کے ذمہ ہو تو ہم اپنے قرض کو اس کے قرض سے بچ لو۔

اِكْوَالٌ اِكْوَالًا: پستہ قد ہونا۔

كَأَنَّ (ف) كَاتَانًا الرَّجُلُ: مضبوط ہونا۔ كَاتَانٌ: حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع۔ اور محلی ذیل میں مستعمل ہے۔

(۱) تشبیہ۔ جیسے "كَأَنَّ زَيْنِدًا اَمْسَدًا" گویا زید شیر ہے اور اکثر استعمال اسی میں ہوتا ہے۔

(۲) تک و ظن جیسے "كَأَنَّ زَيْنِدًا اَقَابِمٌ" شاید زید کھڑا ہے۔

(۳) تقریب جیسے كَاتَلْتُكَ بِالشَّيْءِ مُقْبِلٌ قَرِيبٌ ہے کہ تم جاڑے میں پہنچو۔

كَأَنَّى يَكْفَأُنِي كَاتِيَا الرَّجُلُ: گفتگو سے رنجیدہ کرنا۔

اَلْكَأَنَّى عَقَبَةٌ: ناپسند کرنا۔

كَأَيُّنَ وَكَأَيُّ: کاف تشبیہ اور ابی ت عرب ہے۔ کم خبر کی طرح اَلْاَمْرُ کھیر کے۔ انوں میں مستعمل ہے۔ جیسے كَأَيُّ مِن رَجُلٍ اور كَأَيُّ زَجَلًا وَآيْتُ میں نے بت سے آدمی دیکھے۔ اور قلت کے ساتھ استعمال کے معنی میں بھی آتا ہے

جیسے حضرت ابی بن کعب کا قول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے لیے كَأَيُّ تَقَرُّوا سُورَةَ

الاحزاب یعنی تم نے کتنی مرتبہ سورہ احزاب کی تلاوت کی تو انہوں نے جواب دیا۔ تتر مرتبہ۔

كَتَبَ (ن) كَاتِبًا اِلْاِنَاءَ: برتن کو اوندھا کر دینا۔ الرَّجُلُ عَلَيَّ وَجْهًا وَيُوْجْهًا: بچاڑنا۔

اَلْقُرْلُ: کاتے ہوئے سوت کا گولہ بنانا۔

اَلشَّقِيُّ: بیماری ہونا۔ بوجھل ہونا۔

كَتَبْتُ: کباب بنانا۔

اَكْبْتُ: فَلَانًا: بچاڑنا۔ الرَّجُلُ: بچاڑنا۔

جانا۔ سرگھوں ہونا۔ عَلَيَّ اَلْعِلْمُ وَغَيْرُهُ: بہرہ تن مشغول ہونا۔ اَكْبْتُ عَلَيْهِ: کسی کو

کعب

کبد

کبر

بچانے کے لیے اس پر چما جاتا۔

تکبیب: کپڑے میں لینا۔ الزمّل او الشجر: بد ہوتا۔ تکبیب الایمل: اونٹوں کا تباری وغیرہ کی وجہ سے کرتا۔

تکاب القوم علی الشئی: بھیڑ کرتا۔

انکب علی الامر: لازم ہوتا۔

الکب: ایک قسم کی کڑوی گھاس۔

الکبة: گھوڑوں یا آدمیوں کی جماعت۔ بڑا اونٹ۔ بوجھ۔ کبة الغزل او الخیوط: کاسے ہوئے سوت یا رھائے کا گولہ ج کبیب۔

الکبفوا الکبة: حملہ اور کہا جاتا ہے "کانت لہم کبة فی الحرب" یعنی انہوں نے لڑائی میں شور کیا۔ بھیڑ دو گھوڑوں کے درمیان گھراؤ الکبة: لوگوں کی جماعت۔ کبة النار: آگ کا بڑا حصہ۔ کبة الشفاء: سردی کا یکھاری آنا۔ سردی کی شدت۔

الکتاب: کہاب۔

الکتاب: بہت اونٹ بکری۔ چپکے والی مٹی۔ بہت ریت۔

المکب: دھاکا پینے کی ریل۔ ج میگنات و مکاب۔

المکب والمکتاب: زمین کی طرف نظر رکھنے والا۔

کبتة (ض) کبتا: بچاڑنا۔ زسوا کرتا۔ پھیرنا۔ توڑنا۔ ذیل کرتا۔ غصہ سے روکنا۔ کہا جاتا ہے

"کبتة لوجہہ" یعنی اس نے اس کو منہ کے بل بچاڑ دیا۔ "کبت فلان غیظہ فی جوفہ" یعنی فلاں نے غصہ کو چھپایا۔ "کبت اللہ العذو" یعنی اللہ دشمن کو زسوا ذیل کرنا۔

انکبت: بچھاڑنا۔ زسوا ہونا۔ پھرنے۔ ٹوٹنا۔

المکبیب: غم سے بھرا ہوا۔

کبیت (س) کبتا اللحم: گوشت کا خراب اور بدبودار ہونا۔ صفت کبیب و مکبیب۔

کبیت الشیفة: سختی کو زمین کی طرف کھینچ کر لانا۔ ایک قسمی کاسلانا دوسری قسمی میں رکھنا۔

کبیح (ف) کبیح الذابہ باللجام: چوپائے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔ کبیحہ عن الحاجة: باز رکھنا۔ کبیحہ بالسنیف: گھوڑے سے مارنا۔ کبیح

الحافظ السہم: دیوار کا تیر کو واپس کرنا اور گھسنے نہ دینا۔

اکبیح الذابہ باللجام: چوپائے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔

کابیحہ مکانیحة: گالی گلوچ کرنا۔ بڑا اٹکانا۔

اکبیح مکان: بلند ہونا۔ صفت مکبیح و مکبیح۔

الکابیح: قابل شگونی کی چیز ج کوابیح۔

بھیڑ اکبیح: مضبوط اونٹ۔

کبیدة (ان ض) کبتا: بگڑ پرانا۔

کبتد الامر: ارادہ کرنا۔ البرد القوم: سردی کا تکلیف دہ ہونا۔

کبتد (س) کبتا و کبتد: درو بگڑ والا ہونا۔ صفت مکببؤد۔

کابتد کبتادا و مکابدة الامر: مشقتیں برداشت کرنا۔ المسافر اللیل: رات کے خوف اور صعوبت کے باوجود سڑ کرنا۔

کبتدت الشمس السماء: آفتاب کا وسط آسمان میں پھینا۔

تکبتد الامر: ارادہ کرنا۔ مشقت برداشت کرنا۔

المکان: وسط میں پھینا۔

الشمس السماء: آفتاب کا وسط آسمان میں پھینا۔ اللہین: دودھ کا گاڑھا ہونا۔

الکبتد و الکبتد و الکبتد من الافعاء: بگڑ۔ کبیب (مذکر و مؤنث) ج اکباد و کببؤد: الکبتد:

اندرون۔ پیلو۔ وسط شئی۔ معظم شئی۔ کببؤد القوم: علاقہ۔ کمان کے دونوں طرف کا

درمیان۔ کببؤد الارض: معدنی چیزیں جیسے چاندی سونا وغیرہ کہا جاتا ہے "فلان یضرب الیہ

اکبتاد الایمل" یعنی فلاں کی طرف لوگ سڑ کر کے آتے ہیں۔

الکبتد و الکبتد و الکبتد و الکبتد و الکبتد اقمین السماء: وسط آسمان۔

الکبتد: چھ پتلی۔ ریت کا تودہ کہ جس کا درمیان حصہ بڑا ہو۔ کمان کہ جس کا قبضہ پھیلی کو

بمردے۔ الکبتد: بیٹ کی بڑائی۔ مشقت۔ قضاء آسانی۔ سختی۔ ریت کا درمیان حصہ۔

الکبتدہ: کبتد کا اسم مرہ۔ دوسری وقت کا مرہ۔

الکبتاد: درو بگڑ۔

الکبتاد: بگڑ ترہ۔

الاکبتد: ایک قسم کا پرندہ۔ درمیان سے مونا آہستہ سے چلنے والا۔ بڑے بگڑ والا۔ وہ شخص جس کے بگڑ کی جگہ بلند ہو۔ مؤنث کبتد ج کببؤد۔

الکابید: نا۔ مشقت کی برداشت۔

کبیر (س) کبیرا و مکبیرا فی السین: عمر رسیدہ ہونا۔

کبیر (ن) کبیرا فلانا بالسین: کسی سے بڑا ہونا (عمر میں)

کبیر (ک) کبیرا و کبیرا و کبیرا فی القدر: مرتبہ میں بڑا ہونا۔ کبیر علیہ الامر: دشوار ہونا۔ سخت ہونا۔ بھاری ہونا۔

کبیر الزجل فی حالہ: ظلم سے لیا جانا۔ صفت مکابیر علیہ۔

کبیر تکبیرا و کبیرا: اللہ اکبر کرنا۔ الشئی: بڑا ہونا۔

کابیرہ: دشمنی کرتا۔ مخالفت کرتا۔ غلبہ کرنا۔

کابیرہ: حق کا انکار کرنا۔

اکبیر الامر: بڑا سمجھنا۔ الزجل: بڑا شمار کرنا۔ تقسیم کرنا۔

تکبیر و تکابیر: تکبر کرتا۔ غرور کرتا۔ تکابیر الزجل: اپنے آپ کو بزرگ ظاہر کرنا۔

استکبیر: تکبر ہونا۔ الامر: بڑا سمجھنا۔ بڑا شمار کرنا۔

الکبیر: غرور۔ بڑا گناہ۔

الکبیر و الکبیر: چیز کا بڑا حصہ۔ شرف۔ رفعت۔

الکبیر: گھرو شکر۔

الکبیر و الکبیر و الکبیر: بڑھاپا۔

الکبیرة: بڑا گناہ۔ کہا جاتا ہے "هو کبیرہم و کبیرتہم و کبیرتہم و کبیرتہم و کبیرتہم": وہ ان کا بڑا بوزھا ہے و فلان کبیرة و ولدایہ: فلاں اپنے باپ کی اولاد میں

سب سے بڑا ہے۔ اس میں واحد جمع مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔

الکبیر: دخول۔ ج کبیرا و اکباد (دخول) ایک درخت کا نام۔

الکبیر یاغ: بزرگی۔ عظمت۔ غرور۔

الکُبَّارُ وَالکُبَّارُ وَالکُبَّارُ - بڑا۔ الکَابِرُ - بلند مرتبہ سردار۔ مورثِ اعلیٰ۔
الکُبَّیْرُ - بڑا۔ ج کِبَارٌ وَکُبَّارٌ۔ معلم۔ رئیس اور کبیر اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفیٰ میں سے ہے۔
الکُبَّوْرَةُ - کبیر کا مؤنث۔ بڑا گناہ۔ ج کُبَّیْرَاتٌ وَکُبَّایِرُ۔

الاکْبُرُ - اسم تفضیل۔ اور کہا جاتا ہے الاکْبَرُ وَالْأَصْغَرُ - بمعنی کَبِیْرٌ وَصَغِیْرٌ۔ ج اکَابِرُ وَالْأَكْبُوْرُنَ۔ اکَابِرُ الْقَوْمِ: شرفاء قوم۔ کہا جاتا ہے "أَقَانِیْ فَلَانٌ أَكْبَرُ النَّهَارِ: فلاں میرے پاس دن چڑھنے کے وقت آیا۔

الإکْبِرُ وَالْأکْبَرُ - ایک مٹھی چیز ہے خشک طلوے کی مانند۔ جس کو شد کی مٹھی جمع کرتی ہے اور یہ شد اور موم کے علاوہ ہے۔

الکُبَّوْرَى - اکبر کا مؤنث۔ ج کُبَّوْرٌ وَکُبَّیْرَاتٌ اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ الْجَارِيَةُ مِنْ کُبَّیْرَى بَنَاتِ فُلَانٍ" یہ لڑکی فلاں کی لڑکیوں میں سے بڑی ہے۔
المُکْبَّرُ وَالْمُکْبَّرَةُ - عُکْرٌ بڑائی۔

المُکْبَّرُ وَالْمُکْبَّرَةُ - اسم جمع بمعنی کُبَّارَةٌ۔ کُبَّوْرَةُ الشَّقِیِّ: کسی چیز پر گندھک لانا۔
الکُبَّیْرَةُ - گندھک۔ سرخ سونا۔ سرخ یا قوت۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبٌ کُبَّیْرٌ وَفِضَّةٌ کُبَّیْرٌ" خالص سونا چاندی۔

کَبَشٌ (ض) کَبَشٌ عَلٰی الشَّقِیِّ: حملہ کرنا اور بھینپنا۔ البَشْرُ: کتوں کی مٹھی سے پانا۔
رَاَسَةٌ فِی الْقَوْمِ: سر کو کپڑے میں داخل کرنا۔

الْقَوْمُ ذَاوَه: اچانک حملہ کرنا۔ الْمَسْنَةُ بِيَوْمٍ: سال میں ایک دن زائد کرنا۔
النَّاصِيَةُ جَنْهَةً: پیشانی کو چھپالنا۔

کَبَسٌ (س) کَبَسًا - بڑے سروا لاہونا۔
صَفَتْ اَكْبَسَ مَوْنَثٌ كَبَسًا - ج کَبَشٌ۔
كَبَسَ الْجَسَدَ: جسم کو ہاتھوں سے مل کر نرم کرنا۔

عَلٰی الشَّقِیِّ: گھس پڑنا۔
تَكَبَّسَ وَالکَبَسَ النَّهْزُ او البَشْرُ: نہریا کتوں کی مٹھی سے بھر جانا۔ تَكَبَّسَ الرَّجُلُ: سر کو گریبان میں داخل کرنا۔ تَكَبَّسَ عَلٰی

الشَّقِیِّ: گھس پڑنا۔

الکِبْسُ: کتوں کی مٹھی کی مٹی۔ بڑا سر۔ پہاڑ کی جڑ میں خار۔ خزانہ۔ اصل۔ مٹی کا گھر۔

الکِبْسَانَةُ: کھجوروں کا گچھا۔ ج کِبْسَانِیْسٌ۔
جِبَالٌ کَبْسٌ وَکَبْسٌ: سخت پہاڑ۔

الکَابِیْسُ: ایک بیماری ہے جس میں آدمی کو نیند کی حالت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کو دبائے ہوئے ہے اور وہ حرکت پر قادر نہیں ہوتا اور یہ مرگی کا مقدمہ ہے۔

الکَبْسَانُ: سر کو کپڑے میں لپیٹ کر سونے والا۔
بِوَسْءِ سِرْوَالٍ: پڑگوشت۔ هَامَةٌ کَبْسَانٌ: موٹی گول کھوپڑی۔

الکَبْسَةُ: اچانک حملہ۔

الکَابِسَةُ: کاپس کا مؤنث۔ اَزْبَنَةُ کَابِسَةٌ اور کے ہونٹ پر بھکا ہوا ناک کا ہاتھ۔ نَاصِيَةُ کَابِسَةٌ: پیشانی پر لگے ہوئے بال۔

الکِبْسُ: ایک قسم کی کھجور۔ ایک قسم کا زاپور جس کے خول میں خوشبو بھری ہوتی ہے۔ السَّنَةُ الْکِبْسِيَّةُ: وہ سال جس میں فروری کا مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور یہ ہر اس سال میں ہوتا ہے جو چار پر برابر برابر تقسیم ہو جائے جیسے ۱۹۳۳ء و ۱۹۳۴ء۔

المُكْبَسُ: ج مَكْبَسٌ وَالمِکْبَسَانُ ج مَكْبَسَانِیْسٌ اون یا اوراق وغیرہ دبانے کا آلہ۔
المِکْبَسَانِیْسُ: وہ لوگ جو لوگوں کے گھروں میں آکر گھس آتے ہوں۔
المُکْبَسُ - فَا - سر نیچے رکھنے والا۔ اچانک آنے والا اور دبانے والا۔

کَبَشٌ (ن) کَبَشًا الشَّقِیِّ: مٹھی بھر کر لینا۔
الکَبَشُ: مینڈھا جب کہ دو سال کا ہو۔ اور بقول بعض چار سال کا۔ ج کِبَاشٌ وَأَكْبَاشٌ وَأَكْبَشٌ وَکُبَّوْشَةٌ۔ الکَبَشُ: سردار قوم۔ بڑا پتھر جو دیوار پر نشانہ کرنے کیلئے لگایا جائے۔ ایک جنگی آلہ جو حصار کے موقع پر قلعوں پر پتھر بھینکنے کے کام آتا ہے۔

الکِبَاشُ: جواں مرد لوگ۔
الکَبَاشُ: مینڈھوں والا۔
الکَبَاصُ وَالکَبَاصَةُ: مضبوط و قوی اونٹ یا

گدھا۔

کَبَعٌ (ف) کَبَعًا الشَّقِیِّ: کاٹنا۔ هُ عَن تَحَدًا: منع کرنا۔ رَوْنَا _____ الدَّوَاهِمَ: درواہم پر کھنا اور وزن کرنا۔

کَبَعٌ (ف) کَبَعًا: ڈیل ہونا۔ فروختی کرنا۔
کَبَعٌ الشَّقِیِّ: گلے سے گلے کرنا۔

الکَبَعُ: ایک قسم کی بڑی مچھلی جس کو "جمل البحر" (سندھ کا اونٹ) بھی کہتے ہیں۔

کَبَعٌ کَبَعَةٌ وَکَبَعَةٌ الشَّقِیِّ: اَلتَّنَا بچاڑا۔ المَوَاشِی السَّارِدَةُ: بھاگے ہوئے جانوروں کو جمع کرنا۔ الشَّقِیِّ: گڑھے میں پھینکنا۔

تَكَبَّكَ فِی نِیَابِهِ: پلٹنا۔ الْقَوْمُ: جمع ہونا۔

الکَبَنَکُ وَالکَبَنَکُ: ایک قسم کا کھیل۔
الکَبَنَکَةُ بَعْلِیْتُ الکَابِنِ وَالکَبَنَکُوبُ وَالکَبَنَکُوْرَةُ: لوگوں یا گھوڑوں کی بھیڑ۔
الکَبَنَکُ وَالکَبَنَکَابُ: گھسے بدن والا۔

الکَبَنَکَةُ وَالکَبَنَکُ: کاتے ہوئے دھاگے کا گولہ۔

کَبَلَةٌ (ض) کَبَلًا وَکَبَلَةٌ: بیڑی ڈالنا۔ قید کرنا۔ کَبَلَةٌ وَکَابَلَةٌ مَکَابَلَةُ الدَّیْنِ: قرض کی ادائیگی میں ٹل مول کرنا۔ اوائے قرض میں تاخیر کرنا۔ کَابِلُ الدَّارِ: مکان کے خریدنے میں تاخیر کرنا تاکہ دو سرافض خرید لے اور پھر شفعہ سے لے لیتا۔

تَكَبَّلَ: بیڑی ڈالنا۔ قید ہونا۔
اِکْتَبَلَ الْأَسْبِیْرُ: بیڑی ڈالنا۔ الْکِبْسُ: قہیلی کو باندھنا۔ هُ: بغیر ہوا۔ روکے رکھنا۔

الکَبَلُ وَالکَبَلُ: بیڑی۔ بڑی بیڑی۔ ج کَبَلٌ وَکَبَلٌ وَالکَبَلُ: ڈول کا کنارہ۔ ڈول کا کنارہ جس پر چڑا اترتا ہو۔ بہت بالوں والی پوتھن۔
الکَبَلُ وَالکَابِلِيُّ: ٹھک کپڑا یا پوتھن وغیرہ۔ کہا جاتا ہے "فَرَّ ذَکَبَلٌ اَوْ کَابِلِيٌّ"

الکَابِلُ: شکاری کا جال۔
المُکَبَلُ: بھگ۔ قیدی۔
الکَابِلِيُّ: پستہ قد۔
الکَبَلُ: ایک قسم کا کھانا۔

الکینت۔ مہ۔ ہانڈی اٹنے کی آواز۔ جوش شراب کی آواز۔ جوان اونٹ کی آواز۔ بجل۔ کہا جاتا ہے ”زجل“ کثیف الیٰذین“ یعنی بجل مرو۔ الکینتہ۔ ایک قسم کا کھانا۔

کُتِبَ (ن) کُتِبَ وَکُتِبَا وَکُتِبَتْ وَکُتِبَتْ الْکِتَابَ لکھا۔ کُتِبَ عَلَیْهِ کَذَا: واجب کرنا۔ کہا جاتا ہے ”کُتِبَ اللّٰهُ عَلَیْ عِبَادِهِ الطَّاعَةَ وَعَلَی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی اطاعت فرض کی ہے اور اپنی ذات پر رحمت کو لازم کیا ہے۔ کُتِبَ الْقُرْآنَ کُتِبًا: مکہ کو دہرے تمہ سے سینا۔

کُتِبَ الْکِتَابَ: لکھا۔ الْوَلَدُ: لکھا۔ کُتِبَ الْغَنَاقُ: فوج کے دستے بنانا اور تیار کرنا۔

کُتِبَتْ مِکَاتُهَا: خط و کتابت کرنا۔ ساتھ مل کر لکھا۔ کُتِبَتْ الْعَقِیدَ: مال معینہ کی ادائیگی کی شرط پر آزاد کرنا۔

اُکْتُبُ: لکھا۔ لکھنا۔ لکھنے والا بنا۔ اُکْتُبُ الْقَصِیْدَةَ: لکھوانا۔ اُکْتُبُ الْقُرْآنَ: بک کلمہ ہاندھنا۔

تُکْتُبُ الرَّجُلَ: کپڑے سمیٹ کر ہوشیار ہونا۔ تُکْتُبُ الْکِتَابَ: فوج کے دستوں کا جمع ہونا۔

تُکَاتِبُ الْقَوْمَ: ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنا۔

اُکْتُبُ الْکِتَابَ: لکھا۔ امل کرنا۔ لکھوانا۔ لکھنے کو کہنا۔ الْغَلَامَ: لکھا۔ سکھانا۔

الْقُرْآنَ: مکہ کو دہرے تمہ سے سینا۔ بَطَّلَهُ: بند ہونا۔ الرَّجُلَ: رجسٹر میں اپنا نام لکھا۔ اور اسی سے ہے ”اُکْتُبُ بِصَالٍ اَوْ اِعَالَی“

اِسْتَكْتَبَهُ الشَّقِيُّ: لکھنے کو کہنا۔ هُ الْقَصِیْدَةَ: قصیدہ امل کرانے کو کہنا۔ الْغَلَامَ: کاتب بنانا۔

الکُتْبَةُ: مہ۔ کتاب کی نقل۔ حالت۔ حصہ یا رزق میں رجسٹر ہونا۔

الکُتْبَةُ: سینے کا تمہ۔ مکہ وغیرہ کی درز۔

الکُتَابُ: مہ۔ جس میں لکھا جائے۔ خط۔

اُکْنِبُ الْکِبَاءَ: الرَّئِدُ: چمٹان کا بے آگ ہونا۔ دھونس والا ہونا۔ اُکْنِبُ وَجْهَهُ: حقیق کرنا۔ کُتِبَ مِکَاتُهَا السَّيْفُ: تلوار کو میان میں رکھنا۔

تُکْنِبُ عَلَی الْمَجْمُوعَةِ: عودوان پر کپڑے کو ڈالنا۔

اُکْنِبُ بِالْفُؤْدِ: دھونس دینا۔ اُنْکِنِ: منہ کے بل کرنا۔ الْکِبَاءُ: بلند۔

الکِبَاءُ وَالکِبِیُّ ج الْکِبَاءُ وَالکِبِیَّةُ: ج کُتِبُونَ: کپڑا کرکٹ۔

الکِبَاءُ: زمین پر بڑی ہوئی متفرق چیزیں۔ پانی کے ادھر ادھر غلط جھاگ۔

الکِبَاءُ: دھونس کی کڑی۔ ج کُتِبِی۔

الکُتْبَةُ: کتبہ کا اسم مرہ۔ تیرگی۔

الکُتْبَةُ: دھونس دینے کی تعلیم۔

الکِابِیُّ: فا۔ بلند۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ کِابِیُّ الرَّضَادِ“ فلاں بہت راگ والا ہے۔ کتاہیہ بہت مسمان نواز ہونے سے۔ الْفَحْمُ الْکِابِیُّ: بجا ہوا کولہ۔ زجل“ کتاب: باوجود دعوت کے خیر کی طرف متوجہ نہ ہونے والا مرد۔ غَبَاؤُ کِابٍ: بلند غبار۔

الکِابِیَّةُ: کالی کاسوٹ جھاگ۔ نازِ کِابِیَّةُ: راگ میں چھی ہوئی آگ۔

کُتَّ (ن) کُتَّ: شار کرنا۔ کہا جاتا ہے ”اَنَا نَا بَعِیْشَ مَا بَکُتَّ“ وہ ہمارے اوپر غیر محسور فوج لے کر آیا۔

کُتَّ وَاکُتَّ وَاکُتَّتْ الْکَلَامُ فِی اَذْنِهِ: چپکے چپکے کرنا۔

کُتَّ (ن) کُتِبَتْ: آہستہ چلنا۔

کُتَّ (ض) کُتَّ الْبَعِیْرُ: اونٹ کا آہستہ آہستہ بڑھانا۔ کُتَّتْ الْقِدْرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔ اُبْلَا: کُتَّ الرَّجُلُ: ذلیل کرنا۔ تمکین کرنا۔

اِکْتُتَّ الْحَلِیْفَةُ: بات سنا۔

تُکَاتَتِ النَّاسُ: شور کے ساتھ بھیڑ کرنا۔

الکُتُّ: مہ (بلا مذ کرو مونث)۔

الکُتَّةُ: کٹ کا اسم مرہ۔ زمین کی سبزی۔

الکُتَّةُ: روٹی بیل۔

کُتِبَ (ن ض) اُکْتُبَا: الْفُؤْدُ: کپڑے کو اندر کو موڑ کر سینا۔ الشَّقِيُّ: غائب کرنا۔

عَنِ الشَّقِيِّ: بدل ہونا۔ باز رہنا۔ عَنَهُ لِسَانَهُ: ڈبان روکنا۔ هَذَبْتَهُ: روک لینا۔

کُتِبَ (ض) اُکْتُبُوا کُتِبُوا الْغَلْبَیُّ: ہرن کا زمین سے چمٹنا۔ الرَّجُلُ: سامنے والے اوپر یا پیچھے کے اندر گھمے ہوئے دائروں والا ہونا۔ پڑوسی کو چھوڑ کر دوسرے سے سلوک کرنا۔ آہستہ آہستہ دوڑنا۔ جھوٹا ہونا۔ مطمئن ہونا۔

اُکْنِبُ لِسَانَهُ عَنَهُ: ڈبان روکنا۔

اِجْبَلْنَا اُجْبَلْنَا: سنا۔ سکرنا۔ الْغَلْبِيُّ: ہرن کا زمین سے چمٹنا۔ الرَّجُلُ: غلت دل ہونا۔

الکُتْبُ: مہ ڈول کا تارہ۔ ڈول کا موڑ کر سلا ہوا کنارہ۔

الکُتْبُ وَالکُتْبَةُ: بجل۔ کجوس۔ الْکُتْبَةُ خَلْکَ رُوئِی۔

الکُتْبَانُ: اونٹوں کی ایک بیماری۔

المُکْتَبُونَ: مہ۔ کبان کی بیماری والا اونٹ۔

مِنَ الْغَبِیْلِ: چھوٹی ٹانگوں والا گھوڑا۔ ج مِکَاتِیْنِ: زجل“ مِکَاتُؤُ الْاَصْبَاعِ: سخت اور موٹی انگلیوں والا مرد۔ مَوْتٌ مِکْتُؤَةٌ: المِکْتُؤَةُ: جلد یا عورت۔

کُتِبَا کُتْبُو کُتِبُوا وَکُتِبُوا وَجْهَهُ: منہ کے بل کرنا۔ الرَّئِدُ: چمٹان کا بے آگ ہونا۔

کُتِبَ النَّازُ: آگ کا راگہ میں چمٹنا۔

النُّؤُ: روشنی کم ہونا۔

التَّبْتُ: نبات کا پڑمرہ ہونا۔

الغَبَاؤُ: غبار کا اوپر کچڑھنا۔ الْجَمْرُ: بلند ہونا۔

لَوْنُ الضَّبْحِ اَوْ الشَّمْسِ: تاریک ہونا۔

السُّهْمُ: تیر کا نشان پر نہ لگنا۔ مَاءٌ فِی الْوَعَاءِ: پانی کو برتن میں گرا کرنا۔ کبھیرنا۔

الکُؤُ: کوزہ سے گرا دینا۔ الشَّقِيُّ: صاف کرنا۔ التَّبْتُ: جھاڑو دینا۔

کُتِبِی تَکْبِیةُ النَّازِ: آگ کو راگہ میں چمٹانا۔

نُؤَةُ بِالکِبَاءِ: کپڑے کو کباب سے دھونس دینا

(دیکھئے کِبَاء)

محفوف - فرض - حکم - اندازہ - حج کتب و کتب
والکتاب علی الاطلاق: ہر وہ کتاب جو منزل
من اللہ ہو۔ اہل کتاب: وہ لوگ جن کے
پاس آسمانی کتاب ہو۔ اُمّ الکتاب: اصل کتاب۔
سورۃ فاتحہ۔

الکتبئی: کتابوں کا خانہ۔ کتب فروش۔
الکتابۃ: محلہ۔ لکھا ہوا۔ مال معین کی ادائیگی پر
غلام کو آزاد کرنا۔

الکتیب: بندھن سے بندھی ہوئی محک۔
الکتیبۃ: لفظ کا ایک حصہ۔ گھوڑوں کا ریوڑ۔
سواروں کا دست۔ حج کتاب۔

الکتاب: عالم۔ عمر۔ حج کتابیون و کتبۃ
و کتب۔
الکتاب: جمع کتاب۔ کتب۔ تعلیم گاہ حج
کتابت۔

المکتب: تعلیم گاہ۔ لکھنے کی جگہ۔ حج
مکاتب۔

المکتبۃ: لائبریری۔ کتب خانہ حج مکاتب۔
المکتب: فا رجل مکتب: کتابیں نقل
کرنے والا۔

المکتب: فالتربیت کی تعلیم دینے والا۔
المکتوب: مسموع۔ خط۔ حج مکاتب۔
کتب (ف) کتبنا الطغام: حکم میر ہو کر کھانا۔
کتبنا الریح: ہوا کا اظہار آوازنا۔

الذبی الاضن: کبوتر سے گھوڑوں کا ہات اور
درخت وغیرہ کو چاٹ جانا۔

الکتدو الکتید: دونوں کندھوں کے درمیان
کا حصہ۔ حج اکٹاد و کثود اور کہا جاتا ہے۔
"حزب جؤ اعلینا اکٹاداً و اکٹاداً" وہ ہمارے
خلاف گروہ گروہ ہو کر لگے۔

الاکتد: کندھوں کے درمیان سے بلند حصہ
والا۔

الکترو الکترو والکترو والکترو: بلند کوہان
الکترو: بلند عمارت۔ اندازہ۔ چھوٹا ہودہ۔ ہر چیز کا
درمیان۔

الکترو الکترو: لاکڑھاٹ کی چال۔
الکترو: قبہ۔ گنبد۔ کوہان کا ایک ٹکڑا۔
کتش (ن) کتشا الہلیہ: کالی کرنا۔

کتع (س) کتعا: سکرنا۔ لٹھا ہونا۔ _____
فن العقل: مستعد ہونا۔ کوشش کرنا۔

کتع (ف) کتعاہ: لے جانا (_____ کتوعا)
فی الاضن: ڈور ہونا اور بھاگنا۔
کتع اللحم: گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

کاتعہ: اللہ: تباہ و برباد کرنا۔
تکاتع الزجلان: ایک دوسرے کا بیچا کرنا۔
الکتع حج کتعان والکتیع: لیسیم و زیل

الکتع: مرو لگا پھلکا۔ چست۔ لٹھا۔ راستہ کا واقف۔
لومڑی کا بچہ۔ بھیرا۔ الکتیع: اکیلا مفرد۔ کہا جاتا
ہے "منا بالدار کتیع او کتعاغ" یعنی گھر میں ایک
بھی نہیں۔ حوقل کتیع: پورا سال۔

الکتعہ: حج کتعاغ والکتعہ حج کتعہ والکتعہ
حج کتع: ڈوبی۔

کتع: کتعاغ کی جمع ہے مؤنث کی تاکید میں
مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "اشتریت ہذہ الدار
جمعاء کتعاغ" میں نے اس سارے گھر کو خرید
لیا۔ "زآیت اخواتک جمع کتع" میں نے تیری
ساری بہنوں کو دیکھا۔ اور کتع وصف اور عدل کی
بنا پر غیر منحرف ہے اور کتع کو جمع پر مقدم
نہیں کرتے اور بغیر جمع کے استعمال بھی نہیں
کرتے۔ اسلئے کہ یہ اس کے توابع میں سے ہے۔

الاکتع: لٹھا۔ جس کی اہلیاں بھلی کی طرف
مڑی ہوئی ہوں۔ لفظ اجمع کے توابع میں سے
ہے۔ اور بغیر اجمع کے استعمال نہیں کیا جاتا۔ کہا
جاتا ہے "زآیتہم اجمعین اکتعین" یعنی سب
کو دیکھا۔ مؤنث کتعاغ۔

الکتعاغ: باندی۔ لونڈی۔ تاکید مؤنث کیلئے
جمعاء کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے "اشتریت الدار
جمعاء کتعاغ" میں نے سارا مکان خرید لیا۔
زاعی مکتع: قوی رائے۔ کہا جاتا ہے "جاء
مکتعاغ مکتوعا" یعنی تیز رفتاری سے آیا۔

کتع (ض) کتعا و کتعیفا: آہستہ چلنا یا کندھا
ہلاتے ہوئے چلنا۔ گیارہ کے دونوں کناروں کو ایک
دوسرے کے ساتھ باندھنا۔

_____ فی الأمر: نرمی برتاؤ _____ کتعا
و کتعاہا: الزجل: ٹھکیں کنا: کندھے کے بیچ
ہاتھوں کو باندھنا۔ شانہ پر مارنا _____ التمزج

_____ کتعا
_____ کتعاہا: الزجل: ٹھکیں کنا: کندھے کے بیچ
ہاتھوں کو باندھنا۔ شانہ پر مارنا _____ التمزج

_____ کتعا
_____ کتعاہا: الزجل: ٹھکیں کنا: کندھے کے بیچ
ہاتھوں کو باندھنا۔ شانہ پر مارنا _____ التمزج

_____ کتعا
_____ کتعاہا: الزجل: ٹھکیں کنا: کندھے کے بیچ
ہاتھوں کو باندھنا۔ شانہ پر مارنا _____ التمزج

الذابۃ: زین کا کندھے کو زخمی کرنا _____
الإناء: برتن کو لوہے وغیرہ کے پترے سے جوڑنا
_____ الأمر: ناپسند کرنا (_____ کتعا و کتعاہا)
الظاہر: عمدہ کا بازوؤں کو بیچے کی جانب ملا کر آڑنا۔

کتیف (س) کتعاغ: چوڑے یا بڑے کندھوں
والا ہونا۔ دروند موٹھے والا ہونا۔ کتیف
الرجل: آہستہ چلنا۔

کتیف الرجل: ٹھکیں کنا۔ موٹھوں کے
بیچے ہاتھوں کو باندھنا _____ الإناء: برتن کو لوہے
وغیرہ کے پترے سے جوڑنا _____ اللحم

و نحرۃ: گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے
کائنا _____ الفرض: گھوڑے کا چلنے میں
موٹھوں کو ہلانا۔

کتکتف: سینے پر ہاتھ باندھنا۔ تکتکتف
العین: گھوڑوں کا چلنے میں کندھوں کو اٹھانا۔

الکتیف والکتیف والکتیف: شانہ۔ کندھا
مؤنث۔ حج کتفہ و اکتاف اور عرب کے امثال
میں سے ہے "إنہ لیعلم من أنہن تکتکل
الکتف" اس چالاک شخص کے حق میں بولتے
ہیں جو امور کے کلمات حج سے خوب واقف ہو۔

الکتف: ہمہ درو شانہ کی وجہ سے چالوروں کی
لنگڑاہٹ۔ شانہ کی کوہلی۔

الکتاف: درو شانہ۔
الکتاف: ٹھکیں کسنے کی رشتی۔ حج اکتفہ
و کتف و کتف۔

الکایف: فا: ناپسند کرنے والا۔
الاکتف من العین والجمال: درو شانہ
والا۔ مؤنث کتعاغ حج کتف۔ الاکتف من
الرجال: مروجس کے شانہ میں درو ہو۔

من العین: گھوڑا جس کا شانہ کے اوپر کا حصہ
چوڑا ہو۔

الکتیف: لوہے وغیرہ کا چوڑا پتھر۔ چوڑی
توار۔ حج کتف۔

الکتیفۃ: دروازے کی پٹی۔ دروازے کی
چٹھی۔ جماعت۔ کینہ۔ حج کتایف۔

الکتفان والکتفان: ٹڈی جو پہلی مرتبہ
اڑے۔ واحد کتفانہ۔
المکتاف: چالور جس کا شانہ زین سے زخمی

ہو گیا ہو۔

كَذَكَتِ الزَّجَلُ: بغیر تقصیر کے ہنسا۔
وَنَكَفَكَتْ: آہستہ چلنا۔ چھوٹے چھوٹے
قدم سے دوڑنا۔

الْكُفَّاتُ: جلدی جلدی بولنے والا۔
كُفْلَةٌ (ن) كُفْلًا: قید کرنا۔ ہازر کرنا۔
كَيْلٌ (س) كُفْلًا: چمنا۔ صفت کھیل۔
الْحِمَاؤُ: گدھے کا زمین پر لوٹنے سے گرد آلود
ہونا۔

كَافَلَهُ اللهُ: جاہ دیو برادر کرنا۔ ملعون کرنا۔
كَفَّلَ الشَّيْءُ: جمع کرنا اور گول بنانا۔
تَكْفُلُ الْقَصِيضُ: پستہ قد کا چھوٹے چھوٹے
قدم سے چلنا۔ الشَّيْءُ: جمع ہونا۔ پستہ ہونا
اور گول ہونا۔
الْكُفْلُ: گزرتا۔ چلنا۔

الْكُفْلَةُ مِنَ الطَّيْنِ وَنَحْوُهُ: مٹی وغیرہ کا جھ
شدہ گولا۔ گوشت کا گولا۔ کھجوروں کا کھجور
کھنڈل۔
الْكُفَالُ: نرس۔ حاجت جس کو تم پورا کرو۔
شقت۔ تنگ زندگی۔ درست کیا ہوا لباس یا کھانا۔
گوشت۔ قوت (الْكُفْلُ) موٹاپا اور کما
جاتا ہے "الْفَيْ عَالِيَهُ كُفَالَةٌ" اس نے اس پر اپنا
یو بھرا والا۔

الْمُكْفِيَةُ: درخت خرماس پر پانچھ نہ پہنچ سکے۔
بج کسائل۔
الْمُكْفِلُ: سخت۔ معیبت۔
الْمُكْفَلُ وَالْمُكْفَلَةُ: کھجور کے چوں کا بنا ہوا
ٹوکرا جس میں پدمہ صالح آسکے۔ بج مکا کیل
الْمُكْفَلُ: زمانہ کے مصائب میں سے ایک
معیبت۔

الْكَاؤُنِيَّةُ: رومن کیتھولک۔ جیسا سیموں کا
ایک فرقہ۔ کلاؤنیک کاتھولک کیتھولک (دشیل)
كُتْمٌ (ن) كُتْمًا وَكُتْمَانًا وَكُتْمٌ وَكُتْمٌ
الشَّيْءُ: پوشیدہ کرنا۔ چھپانا۔ اور کبھی کتم کا تعدیہ
دو مفصول کی طرف ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے
كَتْمْتٌ زَيْدًا الْحَدِيثُ (میں نے زید سے بات
چھپائی) اور مفصول اول میں میں کی زیادتی بھی
ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے "كَتْمْتٌ مِنْ زَيْدٍ

الْحَدِيثُ كُتْمٌ الشَّيْءُ": چھپانے میں مبالغہ کرنا۔
وَإِكْتَمْتُ الشَّيْءُ: زور ہونا۔

كُتْمٌ (ن) كُتْمًا وَكُتْمَانًا الْإِنَاءُ: بننے سے
روکے رکھنا۔

كَاتَمَهُ مَكَاتَمَةَ السَّيْرِ: چھپانا۔ کہا جاتا ہے
كَاتَمَهُ الْعَدَاوَةَ: یعنی دشمنی کو چھپایا۔
تَكَاتَمَ الزَّجَلَانِ الْحَدِيثُ: ایک دوسرے
سے پوشیدہ رکھنا۔

إِنكُتْمٌ: چھپنا۔
إِسْتَكْتَمَ السَّيْرَ فَلَانًا: بھید چھپانے کو کہنا۔
الْكَيْفَةُ: پوشیدگی۔

الْكُتْمُ وَالْكُتْمَانُ دَمْرٌ جَسَّ مِنْ خَضَابٍ
بَانَتْ فِيهِ أَوْرَاسٌ كِي جَزُو جَوْشٍ دَمْرٌ كَرُوشَانِي
تیار کرتے ہیں۔

الْكَاتِمُ: فَا۔ کہا جاتا ہے سِرٌّ كَاتِمٌ بِمَعْنَى مَكْتُومٌ
یعنی چھپا ہوا بھید و قُوش كَاتِمٌ كَمَا نَ تَابِتٌ وَ
درست جس میں پھل وغیرہ نہ ہو۔

الْكُفْمَةُ: کتم کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے "مَآ
زَاخْفَتُهُ كُفْمَةٌ" میں نے اس سے ایک کلمہ
جواب میں نہیں کہا۔

الْكُفْمَةُ وَالْكُفَامُ وَالْكُفَامَةُ بھید کو بست
چھپانے والا۔

الْكُفْمُ: بھید کو چھپانے والا (الْكُفْمُ وَالْكُفْمُ)
مِنْ الْقَيْسِيِّ: ثابت و درست کمان۔ یادہ کمان جس
سے آواز نہ نکلے۔ خُزْرُ كُفْمٌ: در زجوش کشاہ نہ ہو
اور پانی نہ لکھے۔

الْأَكْمُ: بڑے ہیٹ والا۔ حکم سیر۔
الْمُكْفِيَةُ: فَا۔ مَسْحَابٌ مُكْفِيَةٌ: بادل جس
میں گرج نہ ہو۔

كُتِينٌ (س) كُتْمًا: الْوَسْخُ عَلَى الشَّيْءِ: میل کا
چھپا ہوا۔ الشَّيْءُ: میل پھیل لگنا۔
دھومیں سے سیاہ ہونا۔ التَّخْلَةُ: درخت
خرما کی جڑوں پر مٹی چڑھ جانا۔ فَلَانٌ سِيَاهٌ
لب ہونا۔

كُتْنٌ وَكُتْنٌ الشَّيْءُ: چھپانا۔
تَكْتَمْتُ الْعُرَاةَ: برقع دستانے اور موزے
پہننا۔

الْكُتْنُ: ہونٹ کی سیاہی۔ دیوار کی دھومیں کی

وَجَسَّ سِيَاهِي: میل پھیل۔ پس پیدگی۔ کھجور کی
جڑ کی مٹی۔

الْكُتْنُ وَالْكَيْنُ: پیالہ۔ سِقَاءٌ كَيْنٌ: میل
کھیل ٹھک۔

الْكُتَانُ: اسی کا پودہ۔ الْكُتَانُ: سبز کالی۔ کہا
جاتا ہے "لَيْسَ الْعَمَاءُ كُتْمَانًا" یعنی پانی کالی والا
ہو گیا۔

الْكُتُونَةُ: کاہن کی قیاس جس کو ذہنی کے
وقت کپڑوں کے نیچے پہنتا ہے۔ (دشیل)
الْكُتَانُ: کھل۔

كُتْنَا يَكُتُو كُتْوًا: چلنے میں قریب قریب قدم
رکھنا۔

أَكْفَى الْكُفْمَاءَ: دشمن پر غالب آنا۔
أَكْفُوْتِي الْكَيْفِيَةَ: غصہ سے بھر جانا۔ بغیر عمل
کے اپنی آپ تعریف کرنا۔

كُتَّ (ش) كُفَالَةً وَكُفْلًا وَكُتَّ (س) كُفْلًا:
گاڑھا ہونا۔ الشَّيْءُ: ہلوان کا گھنا ہونا
الْمُخِيَةُ: داڑھی گھنی اور ٹھنڈی ہونی
بَسْلَجُهُ: باخانہ کرنا۔

أَكَّتْ الزَّجَلُ: گھنی داڑھی والا ہونا۔
صَفَتْ كُتَّ بِنِ كُفَاتٍ وَأَكَّتْ مَوْتٌ كُفَاءً: ج
کُتَّ۔

الْكُتُّ وَالْكَيْتُ: گھنی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
كُتَّ اللَّحِيَةِ وَكَيْتُهَا" وہ گھنی داڑھی والا
ہے۔ "وَأَمْرًا كُفْلًا وَكُفَاءً" گھنے بال والی
عورت۔ الْكُتُّ: میلا پھیلا۔

الْكَيْتُ: سن وغیرہ کا باریک دھاگا جو بکھر
جاتے۔

الْكَاثُ: کٹی ہوئی کھیتی کے دانوں سے جو
دوبارہ اگ آئے۔

كُفَا (ف) كُفَاً وَكُفَاً تَكْفِيَةُ النَّيْنِ وَنَحْوُهُ
دودھ کا پانی کے اوپر اور پانی کا نیچے آنا۔
الْقُدْرُ: ہانڈی کا جھاگ دینا۔ اللَّحِيَةُ:
داڑھی لمبی اور گھنی ہونا۔ الزُّرْعُ: کھیتی کا

سخت اور گھمان ہونا۔ الْقُدْرُ: ہانڈی سے
جھاگ طیچرہ کرنا۔ الزَّجَلُ: بالائی کھانا
أَوْبَانًا لِأَبْلِ: آونٹ کے بال کا لگانا۔

أَكْفَأْتُ اللَّحِيَةَ: داڑھی گھنی اور لمبی ہونا۔

الْكثَافَةُ وَالْكُثَافَةُ مِنَ اللَّيْنِ: هَلَالِي-

_____ مِنَ الْمَاءِ: پانی کی سطح پر جو اُجائے۔ کہا جاتا ہے "سُخِدَ كُثَافَةً فِدْرِكٌ" اپنی ہانڈی کے جھاگ پیچھ کر۔

كُثِفَ (ن ض) كُثِفَا الشَّىءُ: جمع کرنا _____ الشَّىءُ: جمع ہونا _____ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا _____ لِي الْمَكَانِ: داخل ہونا _____ الْمَاءِ: پانی گرانہ۔

_____ الْقَرَابِ: مٹی اُڑانا _____ عَلَيْهِ: حملہ کرنا۔

الصَّنِيدُ فَلَانًا: شکار کا قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "سُكِنَتْكَ الصَّنِيدُ فَارْزَمِهِ" شکار ہمارے قریب آچکا ہے تمہارا۔ حَافَةً يَكْتُمُهُ وَهُ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ كُثِفَ لَيْنُ الْقَافَةِ: اونٹنی کا دودھ کم ہوا۔

كُثِفَ الشَّىءُ: کم ہونا۔ كَاتِبُ الْقَوْمِ: قوم سے قریب ہونا۔

أَكْتَفَ الرَّجُلُ وَالْيَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: قَرِيبٌ هَوَانًا: تھوڑا دودھ یا پانی پلانا۔

إِن كُثِفَ الرَّجُلُ: ریت کا ڈھیر ہونا۔ الكُثْبُ: قریب۔ کہا جاتا ہے "رَمَاهُ مِنْ كُثْبٍ

أَوْ عَنْ كُثْبٍ" یعنی اس نے اس کو نزدیک سے مارا۔

الكُثْبَةُ: تھوڑا پانی یا دودھ۔ ہر تھوڑی اٹھنی چیز۔ پہاڑوں کے درمیان کی پست زمین۔ ج كُثِبَ:

الكِتَابَةُ: کتاب کا مؤنث _____ مِنَ الْفَرَسِ: گھوڑے کی پیٹھ کا ہلالی حصہ۔ ج كَوَالِبُ:

الكُتَابُ: کتب۔ کُتِبَ: بے پیمانہ بے پروا کاتب۔ الكُثْبُ: ریت کا ٹیلہ۔ ج كُثِبَ وَكُثِفَانُ

وَكَثِبَةٌ: مٹی۔ الكُثْبَاءُ: مٹی۔

كُثِفَ (ض) كُثِفَا مِنَ الْعَلَامِ: بھدر کلامیت کہا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقلہ بہت لے جانا۔

كُثِفَ (ف) كُثِفَا الشَّىءُ: جمع کرنا۔ کھیرنا۔

كُثِفَتِ الرِّيحُ الْقَرَابِ عَلَيْهِ: غبار اُٹانا۔ كُثِفَ مِنَ الْعَالِ: خرابی کے موافق لینا (_____

وَكَثِفَ) عَنْ كَذَا: ٹھکانا۔ کہا جاتا ہے "كُثِفَتْهُ الرِّيحُ" یعنی اس کو ہوائے ٹھکانا۔

لُكَاخِ الْقَوْمِ بِالسُّبُوفِ: تلوار بازی کرنا۔ تَكُثِفُ بِالْحَصَى: تکلف نکرہوں سے مارنا۔

الْكُثْفَةُ مِنَ النَّاسِ: چھوٹی سی جماعت۔ رَجُلٌ كُثِفَتْهُ اللَّحِيحَةُ: گھسی اور چھوٹی اور گھٹکر پالی داڑھی والا مرد۔ كُثِفَتْهُ مِنْ قَدِيرِينَ:

شک ہمارے کا چورہ۔ لِيحِيَةً كُثِفَتْهُ: گھسی چھوٹی اور گھٹکر پالی داڑھی۔

كُثْرٌ (ك) كُثْرَةٌ وَكُثْرَةٌ: بہت ہونا۔ صفت كُثِرُوا كَثِيرًا وَكُثِرُوا كَثِيرًا: کثرت میں غالب ہونا۔ كُثْرٌ (ن) كُثْرًا: الزَّجْلُ: کثرت میں غالب ہونا۔ كُثْرَةٌ زِيَادَةٌ:

أَكْثَرَ الزَّجْلُ: بہت مدار ہونا۔ بہت لانا۔ الشَّىءُ: بہت کرنا۔ بہت شمار کرنا۔ بہت پانا _____ التَّخْلُ: درخت خرما کا ٹھونڈا دار ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَكْثَرَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَكَ" اللہ تعالیٰ

ہمارے جیسے کو ہمارے اندر زیادہ کرے۔ كَاتِرَةٌ: کثرت میں غالب آنا۔ کثرت مال یا کثرت عدد پر فخر کرنا۔ كَاتِرُ الْمَاءِ: پینے کے لئے پانی زیادہ چاہنا۔

تَكْثُرُ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے غنی ہونا _____ مِنَ الشَّىءِ: بہت لے لینا _____ بِالْكَلامِ: بہت گفتگو کرنا _____ فَلَانٌ: کثرت کا دُکھلاؤ کرنا۔

تَكَثَّرَ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے غنی ہونا _____ مِنَ الشَّىءِ: بہت لے لینا _____ بِالْكَلامِ: بہت گفتگو کرنا _____ فَلَانٌ: کثرت کا دُکھلاؤ کرنا۔

تَكَثَّرَ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے غنی ہونا _____ مِنَ الشَّىءِ: بہت لے لینا _____ بِالْكَلامِ: بہت گفتگو کرنا _____ فَلَانٌ: کثرت کا دُکھلاؤ کرنا۔

تَكَثَّرَ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے غنی ہونا _____ مِنَ الشَّىءِ: بہت لے لینا _____ بِالْكَلامِ: بہت گفتگو کرنا _____ فَلَانٌ: کثرت کا دُکھلاؤ کرنا۔

تَكَثَّرَ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے غنی ہونا _____ مِنَ الشَّىءِ: بہت لے لینا _____ بِالْكَلامِ: بہت گفتگو کرنا _____ فَلَانٌ: کثرت کا دُکھلاؤ کرنا۔

تَكَثَّرَ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے غنی ہونا _____ مِنَ الشَّىءِ: بہت لے لینا _____ بِالْكَلامِ: بہت گفتگو کرنا _____ فَلَانٌ: کثرت کا دُکھلاؤ کرنا۔

تَكَثَّرَ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے غنی ہونا _____ مِنَ الشَّىءِ: بہت لے لینا _____ بِالْكَلامِ: بہت گفتگو کرنا _____ فَلَانٌ: کثرت کا دُکھلاؤ کرنا۔

تَكَثَّرَ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے غنی ہونا _____ مِنَ الشَّىءِ: بہت لے لینا _____ بِالْكَلامِ: بہت گفتگو کرنا _____ فَلَانٌ: کثرت کا دُکھلاؤ کرنا۔

تَكَثَّرَ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے غنی ہونا _____ مِنَ الشَّىءِ: بہت لے لینا _____ بِالْكَلامِ: بہت گفتگو کرنا _____ فَلَانٌ: کثرت کا دُکھلاؤ کرنا۔

تَكَثَّرَ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے غنی ہونا _____ مِنَ الشَّىءِ: بہت لے لینا _____ بِالْكَلامِ: بہت گفتگو کرنا _____ فَلَانٌ: کثرت کا دُکھلاؤ کرنا۔

وَالْكُثْرَةُ:

الْكُثْرَى مِنَ التَّيْبِلِ وَنَحْوِهِ: نمیز وغیرہ کی زیادتی۔

الْكُثْبِيُّ: بہت۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ كُثْبِيٌّ وَكُثْبِيَّةٌ وَكُثْبِيٌّ: ونِسَاءٌ كُثْبِيٌّ وَكُثْبِيَّةٌ وَكُثْبِيَّاتٌ اور کہا جاتا ہے "كُثْبِيٌّ مَا يَعْمَلُونَ

كَذَا" (بہت سے اس طرح نہیں کرتے) عرلیت کی بنا پر منسوب ہے اس لیے کہ احیان کی صفت ہے اور ما تائید کے لیے ہے۔ اور بعضوں نے

مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منسوب کہا ہے اور ما کو مبالغہ فی الکثرت کیلئے مانتے ہیں۔

الْكُثْفَارُ: بہت (_____ وَالْكُثْفَارُ) جَمَاعَتِينَ: کہا جاتا ہے "لِي الدَّارِ كُثْفَارٌ أَوْ كُثْفَارٌ مِنَ النَّاسِ" یعنی گھر میں لوگوں کی جماعتیں ہیں اور

صرف جانداروں ہی کے لیے مستعمل ہیں۔ الكُثْفِيُّ: بہت فیاض مرد۔

المُكْثِفِيُّ: مالدار۔ المِكْثِفَارُ وَالمِكْثِفِيُّ: بہت بولنے والا (ذکر مؤنث)

المُكْثِفِيُّ: مضم۔ مطلوب۔ وہ شخص جس پر بہت سے آدمی اکتھے ہو جائیں اور دہلیں۔ وہ شخص جس کا سرمایہ ختم ہو جائے اور لوگوں کے حقوق و مطالبات بہت زیادہ ہو جائیں۔

كُثِفَ (ف) كُثِفَا اللَّيْنِ: دودھ کا گاڑھا اور ہلالی والا ہونا۔

كُثِفَتْ (ف) كُثِفَا الْعَتَمِ: ہماری لازم بیعت والی ہونا۔ بیعت چلنے والی ہونا۔

كُثِفَتْ (ف) كُثِفَا كُثْرًا وَعَا كُثِفَتْ (س) كُثِفَا الشَّقَةِ: ہونٹ کا بہت خون والا ہونا ہمیں تک کہ اٹھنے کے قریب ہو جائے۔ ایسے ہونٹ کو کثافة اور ایسے ہونٹ والے کو اُكُثِفَ کہتے ہیں۔

كُثِفَ اللَّيْنِ أَوْ الْعَتَمِ: بمعنی كُثِفَ: كُثِفَتْ الْأَرْضُ: روئیدگی کا ظاہر ہونا _____ الْعِلْدُ: ہانڈی کا جھاگ پھینکنا _____ الْجُرْحُ: زخم کا

اوپر کا حصہ اچھا ہونا _____ لِيحِيَةً فَلَانٌ: داڑھی لمبی اور گھسی ہونا۔

فَلَانٌ السَّقَاةُ: ٹھیکڑی کی اوپر کی پتلاٹ کر

فَلَانٌ السَّقَاةُ: ٹھیکڑی کی اوپر کی پتلاٹ کر

فَلَانٌ السَّقَاةُ: ٹھیکڑی کی اوپر کی پتلاٹ کر

فَلَانٌ السَّقَاةُ: ٹھیکڑی کی اوپر کی پتلاٹ کر

فَلَانٌ السَّقَاةُ: ٹھیکڑی کی اوپر کی پتلاٹ کر

مکان کے لئے ہوئے نشانات۔ کحظ (ف) کحظا العام: خشک سالی ہونا۔ صفت کاحظ۔ الکحظوف۔ جسم کے اعضاء۔ کحل (ف) کحلا وکحل العین: آنکھ میں سرمہ لگانا۔ فلانا: دوسرے کی آنکھ میں سرمہ لگانا۔ صفت کاحل وکحل اور کہا جاتا ہے کحل الشہاد عینہ کنایہ ہے بے خوابی ہے۔	الکشم والکایم من الطین ونحوہ: گاڑھا کچڑ وغیرہ۔ کشم الظریق: راستہ کا ظاہری حصہ۔ کہا جاتا ہے "زمانہ عن کشم" اس نے اس پر نزدیک سے تیرا بار۔ الاکشم: کشادہ راستہ۔ "وظب اکشم" بھرا ہوادودھ کا برتن۔ الکشمۃ: گلدستہ۔ پھولوں کی نوکری۔ الکشمب: سخت۔ الکفو: مٹی کا ڈھیر۔ تھوڑا دودھ۔ سنگ خوار پرندہ۔ کحج (ن) کحجا الغلام: بڑے کا گلید کھیلا۔ الکحجۃ: گیند۔ الکحجکحجۃ: ایک کھیل ہے کہ اس کو استمال کلبہ بھی کہتے ہیں۔ الکحج: خالص۔ کہا جاتا ہے "هو عزیب کحج" وہ خالص عربی ہے۔ کحجب الکوزم: کچا گور ظاہر ہونا۔ الکحجب: کچا گور واحد۔ کحجۃ: ڈبر۔	کحما۔ الکحفة والکحفة۔ بالائی۔ ہانڈی کے جھاگ۔ الکحفة: اوپر کے ہونٹ کے درمیان کا گڑھا۔ الکحفة۔ گارا۔ کچڑ۔ الکحیف۔ نا۔ افرآة شکفۃ: ہونٹوں یا مسوڑوں میں بہت خون والی عورت۔ الکحقم۔ چیتا۔ اور بقول بعض تیندوا۔ کحف (ک) کحفاة وکحاف: موتا ہونا۔ بہت ہونا۔ تمیان ہونا۔ صفت کحیف۔ کحفۃ۔ مونا کرنا۔ اکحف منۃ: قریب ہونا۔ قدرت دینا۔ استکحف الشی: گاڑھا ہونا۔ الشی: گاڑھا پانا۔ گاڑھا شمار کرنا۔ الأمر بلند ہونا۔ الکحف۔ جماعت۔ الکحیف۔ گاڑھا۔ مونا۔ کہا جاتا ہے وجحل کحیف یعنی سخت اور بد حالی کی زندگی بسر کرنے والا مرد۔ والکحاف: بہت۔ کحکح الترحل: کھنی داڑھی والا ہونا۔ الکحکح والکحکح: مٹی۔ سگریزے۔ کحکل (ن) کحلا الشی: جمع کرنا۔ الکحلا: گروہ۔ گیہوں کا انبار۔ الکحول والکحول: دنیا۔ نشی۔ الکحولیک: دیکھے کاٹولیک۔ کحکم (ض) کحکما الشی: جمع کرنا۔ الأقر: تابعداری کرنا۔ بیروی کرنا۔ الشی: منہ میں رکھ کر توڑنا۔ ف عنی الأمر: باز کرنا۔ کشم (س) کشما: قسم میر ہونا۔ بڑے پیٹ والا ہونا۔ صفت اکشم۔ کحاقمۃ: قریب آنا۔ میل ملاپ کرنا۔ اکشم القریۃ: ملک بھرنا۔ فین یتبعہ: روپوش ہونا۔ اکشمۃ العین: شکار کا قریب ہونا اور موقع دینا۔ تکشم: حیران ہونا۔ توقف کرنا۔ چھٹا۔ الکشم: ٹھکن ہونا۔ عن وجو کحدا: بھربانا۔
کحل (ن) کحلا وکحل العین: آنکھ میں سرمہ لگانا۔ فلانا: دوسرے کی آنکھ میں سرمہ لگانا۔ صفت کاحل وکحل اور کہا جاتا ہے کحل الشہاد عینہ کنایہ ہے بے خوابی ہے۔	کحج (ن) کحجا الغلام: بڑے کا گلید کھیلا۔ الکحجۃ: گیند۔ الکحجکحجۃ: ایک کھیل ہے کہ اس کو استمال کلبہ بھی کہتے ہیں۔ الکحج: خالص۔ کہا جاتا ہے "هو عزیب کحج" وہ خالص عربی ہے۔ کحجب الکوزم: کچا گور ظاہر ہونا۔ الکحجب: کچا گور واحد۔ کحجۃ: ڈبر۔	کحکح الترحل: کھنی داڑھی والا ہونا۔ الکحکح والکحکح: مٹی۔ سگریزے۔ کحکل (ن) کحلا الشی: جمع کرنا۔ الکحلا: گروہ۔ گیہوں کا انبار۔ الکحول والکحول: دنیا۔ نشی۔ الکحولیک: دیکھے کاٹولیک۔ کحکم (ض) کحکما الشی: جمع کرنا۔ الأقر: تابعداری کرنا۔ بیروی کرنا۔ الشی: منہ میں رکھ کر توڑنا۔ ف عنی الأمر: باز کرنا۔ کشم (س) کشما: قسم میر ہونا۔ بڑے پیٹ والا ہونا۔ صفت اکشم۔ کحاقمۃ: قریب آنا۔ میل ملاپ کرنا۔ اکشم القریۃ: ملک بھرنا۔ فین یتبعہ: روپوش ہونا۔ اکشمۃ العین: شکار کا قریب ہونا اور موقع دینا۔ تکشم: حیران ہونا۔ توقف کرنا۔ چھٹا۔ الکشم: ٹھکن ہونا۔ عن وجو کحدا: بھربانا۔
کحل (ن) کحلا وکحل العین: آنکھ میں سرمہ لگانا۔ فلانا: دوسرے کی آنکھ میں سرمہ لگانا۔ صفت کاحل وکحل اور کہا جاتا ہے کحل الشہاد عینہ کنایہ ہے بے خوابی ہے۔	کحج (ن) کحجا الغلام: بڑے کا گلید کھیلا۔ الکحجۃ: گیند۔ الکحجکحجۃ: ایک کھیل ہے کہ اس کو استمال کلبہ بھی کہتے ہیں۔ الکحج: خالص۔ کہا جاتا ہے "هو عزیب کحج" وہ خالص عربی ہے۔ کحجب الکوزم: کچا گور ظاہر ہونا۔ الکحجب: کچا گور واحد۔ کحجۃ: ڈبر۔	کحکح الترحل: کھنی داڑھی والا ہونا۔ الکحکح والکحکح: مٹی۔ سگریزے۔ کحکل (ن) کحلا الشی: جمع کرنا۔ الکحلا: گروہ۔ گیہوں کا انبار۔ الکحول والکحول: دنیا۔ نشی۔ الکحولیک: دیکھے کاٹولیک۔ کحکم (ض) کحکما الشی: جمع کرنا۔ الأقر: تابعداری کرنا۔ بیروی کرنا۔ الشی: منہ میں رکھ کر توڑنا۔ ف عنی الأمر: باز کرنا۔ کشم (س) کشما: قسم میر ہونا۔ بڑے پیٹ والا ہونا۔ صفت اکشم۔ کحاقمۃ: قریب آنا۔ میل ملاپ کرنا۔ اکشم القریۃ: ملک بھرنا۔ فین یتبعہ: روپوش ہونا۔ اکشمۃ العین: شکار کا قریب ہونا اور موقع دینا۔ تکشم: حیران ہونا۔ توقف کرنا۔ چھٹا۔ الکشم: ٹھکن ہونا۔ عن وجو کحدا: بھربانا۔
کحل (ن) کحلا وکحل العین: آنکھ میں سرمہ لگانا۔ فلانا: دوسرے کی آنکھ میں سرمہ لگانا۔ صفت کاحل وکحل اور کہا جاتا ہے کحل الشہاد عینہ کنایہ ہے بے خوابی ہے۔	کحج (ن) کحجا الغلام: بڑے کا گلید کھیلا۔ الکحجۃ: گیند۔ الکحجکحجۃ: ایک کھیل ہے کہ اس کو استمال کلبہ بھی کہتے ہیں۔ الکحج: خالص۔ کہا جاتا ہے "هو عزیب کحج" وہ خالص عربی ہے۔ کحجب الکوزم: کچا گور ظاہر ہونا۔ الکحجب: کچا گور واحد۔ کحجۃ: ڈبر۔	کحکح الترحل: کھنی داڑھی والا ہونا۔ الکحکح والکحکح: مٹی۔ سگریزے۔ کحکل (ن) کحلا الشی: جمع کرنا۔ الکحلا: گروہ۔ گیہوں کا انبار۔ الکحول والکحول: دنیا۔ نشی۔ الکحولیک: دیکھے کاٹولیک۔ کحکم (ض) کحکما الشی: جمع کرنا۔ الأقر: تابعداری کرنا۔ بیروی کرنا۔ الشی: منہ میں رکھ کر توڑنا۔ ف عنی الأمر: باز کرنا۔ کشم (س) کشما: قسم میر ہونا۔ بڑے پیٹ والا ہونا۔ صفت اکشم۔ کحاقمۃ: قریب آنا۔ میل ملاپ کرنا۔ اکشم القریۃ: ملک بھرنا۔ فین یتبعہ: روپوش ہونا۔ اکشمۃ العین: شکار کا قریب ہونا اور موقع دینا۔ تکشم: حیران ہونا۔ توقف کرنا۔ چھٹا۔ الکشم: ٹھکن ہونا۔ عن وجو کحدا: بھربانا۔

الاکحل۔ مرد سرمہ لگا ہوا۔ بازو کی ایک رگ کا نام۔
 الکحلایہ۔ الاکحل کا مؤنث۔ وہ عورت جس کی آنکھیں بہت سیاہ ہوں۔ سفید جسم اور سیاہ آنکھوں والا میزاج۔ ج کحل۔
 الکحلایہ والاکحیلایہ۔ گاؤڑ زبان۔
 الکحلی۔ سرمہ بنانے والا۔
 المکحل والمکحل۔ سرمہ کی سلائی۔
 المکحلیۃ۔ سرمہ دانی۔
 الکحیمۃ۔ آنکھ۔
 کحی ینکحی کحیما الشیء: خراب ہونا۔
 چاہ ہوتا۔
 کح (ض) کحیا وکحیغیا فی نومیہ: فراموشی۔
 کحیمۃ (ف) کحیمۃ۔ ہٹانا۔ دفع کرنا۔
 الکحیم۔ ہٹا۔
 کڈ (ن) کڈا۔ کام میں محنت کرنا۔ روزی طلب کرنا۔ اٹلی سے اشارہ کرنا۔ مانگنے میں اصرار کرنا۔ الزجل۔ تھکانا۔
 الزاس۔ سر میں کھمی کرنا یا خوب کھلانا۔
 الشیء ہاتھ سے چھین لینا۔
 کڈدہ۔ سختی سے ہٹانا۔
 تکڈدہ۔ مشقت برداشت کرنا۔
 اکڈواکڈ۔ کجی کرنا۔ بخل کرنا۔ واکڈد الشیء ہاتھ سے چھین لینا۔
 اکڈدہ واکڈدہ۔ کام میں محنت کرنا۔
 اکڈدہ۔ جس میں کوئی چیز کوئی جائے جیسے ہون۔ کہا جاتا ہے "لیس ہذا من کڈدہ ولا کڈدہ اینک" یعنی یہ تمہاری محنت و کوشش سے حاصل نہیں ہوئی۔
 الکڈدہ والکڈدہ۔ سخت زمین۔ الکڈدہ: موٹا موٹا پتھرا ہوا نمک۔ زمین۔ حکم فراخ۔
 الکڈادۃ والکڈدۃ والکڈدۃ ہانڈی کا باقی ماندہ کھانا۔ ہانڈی کی کھرجن۔
 کڈاؤۃ السخن: سچی کا پھٹ۔ کڈاؤۃ الکلا: تھوڑی کھاس۔
 الکڈوۃ۔ بہت سختی۔ بخیل۔ پٹر کڈوڈ: کتوں جس کبابی مشکل سے نکالا جائے۔

الاکڈدہ۔ چری ہوئی چراگاہ کا لقب۔
 قوم اکڈاد واکڈدیند۔ نکست خوردہ قوم (ان کیلئے واحد نہیں) اور کہا جاتا ہے "زأینہم اکڈاد، واکڈدیند" میں نے ان کو گروہوں میں دیکھا" واپل اکڈاد" تیر چلنے والا اوٹ۔
 المکڈ۔ کھمی۔
 المکڈوۃ۔ سفہ مغلوب۔ أرض مکڈوۃ: کھروں سے روندی ہوئی زمین۔
 کڈا وکڈی (ف س) کڈدۃ وکڈوۃ ا التبت: نباتات کا سردی کی وجہ سے سرھٹنا یا پانی نہ پھینکنے کی وجہ سے نہ بڑھنا۔
 کڈی (س) کڈا الغراب: کڑے کالے کرنے جیسی آواز نکالنا۔ التفتل: چھوٹا ہونا اور چہا ہونا۔ ایل: اونٹ کا کم بال والا ہونا۔
 کڈا وکڈا البیوڈ التبات: زمین پر پھٹنا اور اٹکنے نہ دینا۔
 أرض کڈدہ۔ دیر سے اٹنے والی یا اگانے والی زمین۔ ایل کڈوۃ الاذتار: کم بال والے اونٹ۔
 الکذب والکذب والکذب والکذب: جو انوں کے نامن کی سپیدی واحد کڈدہ۔ دم کڈد: تازہ خون۔
 کڈج (س) کڈج الزجل: بقدر کھلیت پینا۔
 کڈح (ف) کڈح فی العصل: محنت کرنا۔ مشقت اٹھانا۔ کڈح لغتالیہ: کمالی کرنا۔ راستہ بالمسقط: کھمی سے سر کے بالوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا۔ وکڈح الوجحہ: چہرہ پر خراش لگانا۔
 چہرہ کو لچھنا۔
 اکڈح لغتالیہ: کوشش کرنا۔ کمالی کرنا۔
 تکڈح الجلد: خراش لگانا۔ کہا جاتا ہے "وقع من السطح فتکڈح" چھت سے گر پڑا پس خراش لگ گئی۔
 الکڈح۔ مہ۔ خراش۔ ج کڈوح۔
 کڈر (ن) وکڈر (ک) وکڈر (س) کڈدوا وکڈادۃ وکڈوۃ وکڈوۃ وکڈوۃ: تیرہ گوں ہونا۔ نیلا ہونا۔ گدلا ہونا۔ کہا جاتا ہے "کڈر علی فلان" طعیناک ہوا۔ کڈر الغیش: زندگی تلخ ہوئی۔

کڈر الشیء: تیرہ گوں کرنا۔ کہا جاتا ہے "کڈر غیش فلان" فلان کی زندگی تلخ کر دی۔
 تکڈر واکڈر الشیء: تیرہ گوں ہونا۔
 انکڈر لی السنیور: تیر دوڑنا۔ علیہ القوم: قوم کا کسی پر ٹوٹ پڑنا۔ انکڈرت الشجر: بکھرجانا۔
 الکڈرۃ۔ مہ۔ من الاوان: نیلا۔
 الکڈرۃ من الحوض: کچھڑیا کالی۔ کئی ہوئی کھیتی کا ایک مشاج کڈر (س) والکڈری والکڈری (س) پتلا ہونا۔
 الکڈر والکڈر والکڈری من الغیش او الاوان وغیر ذلک: غیر صاف۔ تکلیف دہ۔
 الکڈر: موٹا قوی گھسے بدن کا جوان۔ جمنا کڈر: موٹا گدھا۔ مؤنث کڈرۃ۔ موٹا گدھا۔ مؤنث کڈرۃ۔
 الکڈارۃ۔ ہانڈی میں سچی کا پھٹ۔
 الاکڈر۔ نیلا۔ مؤنث کڈرۃ۔ ج کڈر۔ سخت سیلاب۔ غیش اکڈر: تلخ زندگی۔
 کڈسۃ (ض) کڈسۃ وکڈاسا۔ دفع کرنا۔ ہٹانا۔ کڈس بہ الارض: پھانٹنا۔ کڈست الذابۃ چھپانے کا چھینکا۔ المنقلل: کھینچا۔ سنویر: گرا ہوا آدمی کا دوڑنا۔ الخیل: گھوڑوں کا چلنے میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا۔ (کڈسۃ) بدغالی لینا (کڈس) والکڈس: کئی ہوئی کھیتی کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر لگانا۔
 کڈس۔ ڈھیر کا ایک دوسرے کے اوپر ہونا۔
 تکڈست الخیل: گھوڑوں کا چلنے میں ایک دوسرے پر چڑھنا۔ تکڈس الزجل: کندھے ہلاتے ہوئے دوڑنا۔ سینہ اٹھا کر چلنا۔
 القوس والکڈسۃ والکڈاس۔ جانوروں کی چھینک اور کبھی انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے والکڈس من الفلج او الحصینو ما اشدہ: برف یا کئی ہوئی کھیتی کا ڈھیر اور جوان کی طرح ہونا۔
 الکڈس۔ ج اکڈاس والکڈاس ج کڈاویس کئی ہوئی کھیتی کا ڈھیر۔ اکڈاس

الکاذبہ: فاد لڑنے والا۔ ج کڈوہ۔
 الکڈوہ: مع۔ خراش۔ پتھر کی رگڑ کا اثر۔ ج کڈوہ۔
 کڈ ایکڈو کڈو او کڈو او۔ الزؤغ: خراب نفل ہونا۔ الازض: دور سے آگیا۔
 کڈاء الشئی: کاٹنا۔ منع کرنا۔
 کڈی یکڈی کڈی بالعظیم: ہڈی کا گلے میں اٹکنا۔ المصلک: بے خوشبو ہونا۔ صفت کڈو کڈی: کڈیت اصابعہ: انگلیوں کا کھونے کی وجہ سے ٹھنکا۔
 تکڈئی تکڈئی: مشقت برداشت کرنا۔
 کڈی یکڈی کڈی الزؤجل: روکنا۔ مشغول کرنا۔ الزؤجہ: چہرے میں خراش لگانا۔ الزؤجل: دینے میں بخل کرنا۔
 اکڈئی اکڈئی الزؤجل: حاجت میں ناکام رہنا۔ دینے میں بخل کرنا۔ اکڈاء عن کڈا: باز رکھنا۔ منع کرنا۔ اکڈی المصعدن: جو ہرنہ ہانا۔ الحافض: کھوتے کھوتے سخت زمین پر پختا اور آگے کو نہ کھو سکتا۔ کہا جاتا ہے "سائلہ فاکڈئی" یعنی اس نے اس سے سوال کیا تو اس کو سخت زمین کی مانند پایا۔ النیش: سردی کی وجہ سے چھوٹا ہونا۔ العام: خشک سال ہونا۔
 المظط: ہارش کم ہونا۔ الزؤجل: غنا کے بعد محتاج ہونا۔
 کڈئی تکڈئی: سوال کرنا۔ خیرات مانگنا۔
 تکڈئی تکڈئی: عطیہ طلب کرنا۔
 الکڈیہ: سخت ٹھوس زمین۔ بڑی سخت چٹان۔ ج کڈی۔ الکڈیہ: طلب عطیہ۔ باصرار مانگنے کا پیشہ۔ زمانہ کی سختی۔ ()۔
 والکڈاء والکڈیہ: مٹی یا پتھر کا ڈھیر۔
 الکادویہ: زمانہ کی سختی۔
 کڈ (ن) کڈا: کھورانا ہونا۔
 اکڈ: نرم پتھر چلانا۔
 الکڈان: نرم پتھر۔ واحد کڈانہ۔ کڈب (ض) کڈبنا و کڈبنا و کڈبنا و کڈبنا و کڈبنا و کڈبنا و کڈبنا۔
 کڈبنا: جھوٹ بولنا۔ جان بوجھ کر غلط خبر دینا۔
 کڈب العین: دھوکا دینا۔ کڈب الزائی: غلط ہونا۔ کہا جاتا ہے "کڈبک عینک" یعنی تیری

الکڈم۔ دانٹوں سے بہت کائنے والا۔ بہت لڑاکا۔ سز سز والی کالی ٹڈی۔ واحد کڈمہ۔
 الکڈمہ: کڈم کا اسم مرتہ۔ داغ نشان۔
 الکڈمہ: حرکت۔
 الکڈوم والکڈام۔ دانٹ کائنے والا۔
 الکڈام: گھاس کی جڑیں جو پانی پڑنے کے بعد پھر آگ آئیں۔ بوڑھا مرد۔
 الکڈامہ: کھالی ہوئی چیز کا بقیہ۔ دانٹ سے کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔
 الکڈامہ والکڈام۔ کھالی ہوئی چیز کا بقیہ۔
 الصکڈم۔ دانٹ کائنے کی جگہ۔
 الصکڈم۔ من العین والاکسینہ: مضبوط عی ہوئی۔ فذخ مکڈم: ہونے والے کاشیے کا پالہ۔
 اسیئر مکڈم: برستی سے بندھا ہوا قیدی۔
 الصکڈم۔ دانٹ سے کاٹا ہوا۔ زجل مکڈم: جنگ کا زخمی شدہ۔
 کڈن (ن) کڈنا: بالفؤب: پڑنا یا بندھنا۔
 الكڈن والکڈن: کپڑا جس کو عورت پردہ میں رہنے ہوئے پہنے۔ پاکلی۔ کبادہ۔ جانور کی ٹانگ کی کھال جس کو دباغت دینے کے بعد دو اور غیرہ کوٹنے کے استعمال میں لاتے ہیں ج کڈون۔
 الکڈنہ: کوہان۔
 الکڈنہ والکڈنہ: چربی اور گوشت کی کثرت۔
 الکڈانہ: نااہل۔ فرومانگی۔
 الکڈن: بہت چربی اور گوشت والا۔ موٹن کڈنک کڈنات۔
 الکڈن: مٹالا۔
 الکڈان: نرم پتھر (اور یہ کڈان کی تحریف ہے)۔
 الکڈانہ: نرم پتھر کا کڈا۔
 کڈہ (ف) کڈہا کڈہ: الشئی: توڑنا۔
 بالحقیر: پتھر سے سخت رگڑنا۔
 علیہ: غالب ہونا۔ ہ الہم: مشقت میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "ہو مکڈوہ من الہم" وہ غم کی وجہ سے ٹھکین ہے۔
 لاخلہ: مشقت سے کھالی کرنا۔
 شغرة بالمشط: بالوں میں کٹھنی سے ماکنا۔
 تکڈہ: ٹوٹنا۔

الزؤجل: بریت کا تہہ۔
 الکڈامہ: ایک دوسرے پر جمع کیا ہوا ڈھیر۔
 الکادیس: فاد جس سے بدفالی جائے۔ ج کڈوایس۔
 الفتکادیس: فاد۔ من الشجور: گنجان درخت۔
 کڈضہ (ض) کڈضہ: خراش لگانا۔ تلوار یا نیزہ سے مارنا۔ سختی سے ہٹانا۔ کاٹنا۔ ہانکنا۔ ہٹانا۔
 کڈض لعیالہ: جلد کرنا اور محنت مشقت سے کھالی کرنا۔ ()۔
 اکڈض و اکڈض: من فلان عطاء: حاصل کرنا۔ اکڈض بختیر: تموزی سی خریدنا۔
 تکڈض الزؤجل: پیچھے سے دھکا دینے جانے کی وجہ سے گرنا۔
 الکڈض: نرم۔ کہا جاتا ہے "جڈ کڈض"۔
 خراش زدہ کھال۔
 الکڈاض: بہت کھالی کرنے والا۔ باصرار مانگنے والا۔
 کڈعہ (ف) کڈعہ: ہٹانا۔ دفع کرنا۔
 الکڈعہ: ذیل ورسوا۔
 اکڈف القروش: گھوڑے کی ٹاپ کی آواز۔
 شالی دینا۔
 الکڈفہ: ٹاپ یا چاپ کی آواز۔
 کڈ کڈ الزؤجل: زور سے ہنسا۔ چلنے میں گرجا رہا ہونا۔ حملہ کرنا۔ کڈ کڈ و کڈ کڈ۔
 سختی سے ہٹانا۔
 الکڈ کڈہ: مع۔ سخت چیز پر کسی چیز کے مارنے کی آواز۔
 کڈم (ض) کڈم: اگلے دانٹوں سے کاٹنا۔
 الصیند: شکار کو بھاگنا۔ کہا جاتا ہے "کڈم لین غنیر مکڈم" بے موقع طلب کیا۔
 کڈمبت الذابۃ الخیشیش: چوپائے کا گھاس پر اچھی طرح سے قادر ہونا۔
 اکڈم الایستو: قیدی کو مضبوط بانہ ہاجانا۔
 تکادمؤ۔ بالافواہ: ایک دوسرے کو دانٹ لگانا۔
 الکڈم۔ مع۔ اثر۔ انسان۔ ج کڈوم۔
 الکڈم۔ دانٹ کائنے کا نشان۔

نظر نے تجھ کو دھوکا دیا۔ وکذب السیر: چلنے میں کوشش نہ کرنا۔ وکذب القوم السوی: لوگ رات کو چلنے پر قادر نہیں ہوئے اور کبھی دو مفعول کی طرف متعدي ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "کذبۃ الحدیث" جبکہ غلط خبر دے اور خلاف واقعہ بیان کرے اور مشہور ہونے کی صورت میں صرف ایک ہی مفعول آتا ہے۔

کذب الزجل: جھوٹی خریدیا جانا۔ کذبۃ: جھوٹا بنانا۔ جھوٹ کی طرف نسبت کرنا۔ کذب عن أمر اذۃ: ترک جانا۔ العثر: گری کا کم ہونا۔ عن فلان: فلاں کی طرف سے جواب دینا۔ کہا جاتا ہے "منا کذب أن فعل کذا" یعنی اس نے کرنے میں دیر نہیں کی کذب نفسه: جھوٹ بولنے کا اقرار کرنا۔ تکذیبوا کذابا: نکار کرنا کہا جاتا ہے "کذب بآیات ربہ" اس نے پروردگار کی نشانیوں کا نکار کیا۔

اکذبۃ: جھوٹ پر آمادہ کرنا۔ جھوٹا پانا۔ جھوٹ ظاہر کرنا۔ اکذب نفسه: جھوٹ بولنے کا اقرار کرنا اور کہا جاتا ہے "اکذب فلان" جب کہ آواز دی جائے اور وہ خاموش پڑا ہے یہ ظاہر کرے گویا سوا ہوا ہے اس سے اسم الإكذاب ہے۔ کاذبۃ کذابا و مکاذبۃ: کسی کو یہ کہنا کہ تو نے جھوٹ کہا۔

تکذب: تکلف جھوٹ بولنا۔ فلانوا علیہ: جھوٹا سمجھنا۔ تکاذب: القوم: ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا۔

الکذاب: بتطلیح الکاف والکذبی و الکذبان: جھوٹ۔

الکذوبۃ: جھوٹ۔ ج کاذبہ۔

الکاذب: فاج کذبۃ و کذاب و کذب۔

الکاذبۃ: کاذب کا مؤنث ج کاذبات و کواذب: جھوٹ۔

الکذوب: ج کذب و الکذبان

والکذبان و الکذبان: بڑا جھوٹا۔ الکذوب: نفس۔

الکذاب و الکذبة و الکذوبۃ و التکذاب و المتکذبان و المتکذبانۃ بڑا جھوٹا۔ الکذوبۃ: نفس۔

الکذبة و المتکذبة: ج مکاذب و المتکذوب و المتکذوبۃ: ج مکاذیب: جھوٹ۔

التکاذیب: جمعی باتیں۔ لغوی باطل باتیں۔ کذاب: دو طریقہ سے مستعمل ہے۔

(۱) یہ کہ دونوں کلمے کاف حرف تشبیہ اور ذال اسم اشارہ اپنی اصلی حالت پر رہیں جیسے زأنت زئذا فأضلا وزأنت عذرؤا کذابا اور اس صورت میں ہا کلمہ تشبیہ بھی داخل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے ہنکذاب۔

(۲) یہ کہ کلمہ انہیں دونوں کلموں سے مرکب ہو اور کئی ہوا عدد سے جیسے قبضت کذابا کذابا و کذابا کذابا وغیرہ سے جیسے بمکان کذابا کذابا۔ الکاذبۃ: کیوڑہ۔

کثر (ن) کثوڑا۔ لوثا۔ مڑنا۔ کہا جاتا ہے "أنهزم عنه لم کثر علیہ" یعنی اس نے فلاں سے نکلت کھائی اور پھر لوث پڑا۔ بینتر بدلنے کے لیے بھانکا پھر دوبارہ حملہ کرنا۔ صفت کثوار۔ اور اسی سے کہا جاتا ہے "الجواد یصلح للکثر والقیہ" گھوڑا گھونٹے اور حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اللیل و النهار: رات دن کا باری باری آنا۔ (کثر) الزجل: لوثا۔ کثرا و کثوڑا و تکرازا الفاریس علی العذو: شہسوار کا دشمن پر حملہ کرنا اور لوث پڑنا۔

کثر (ن) کثریوا۔ الصریض: جان دینا۔ کثر (س) کثرا صدزۃ: گھاگھونٹے ہوئے کی طرح آواز لگانا۔

کثرو تکرازا و تکریزا و کثیرۃ۔ الشقی: بار بار کرنا۔

تکثر: بار بار ہونا۔

الکثر: مہ۔ کھجور کے پتوں کی رتی۔ درخت خراب پر چڑھنے کی رسی۔ جہاز کا رسا۔ ج کثوڑا

والکثر: کواں۔ ج کثوار۔ الکثر: نماز پڑھنے کے لیے مصلیٰ۔ ج کثوار و

کثوڑ۔

الکثر: ایک بیان کا نام۔ جادرج اکثر۔

الکثرۃ: لڑائی میں حملہ۔ عد

المولدين من المحاسين: ایک لاکھ ج کثرات۔ الکثرۃ: سڑی ہوئی بیگنیاں جس سے زرہ کو صاف کرتے ہیں۔ صبح اور شام اور ان دونوں کو کثران اور کثران کہتے ہیں۔

الکثرۃ: لڑائی میں حملہ۔

الکثرۃ: مہ۔ گھاگھونٹے ہوئے والے کی طرح سینہ کی آواز۔ غبار وغیرہ کی وجہ سے گھو کر تکی۔

الکثرار و المکثر: لڑائی میں بہت زیادہ حملہ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "فوس مکثر مقفر" یعنی گھوڑا ایسا سدھا ہوا کہ حملہ کے وقت حملہ کرے اور جب بھاگے کارادہ کریں تو لے کر بھاگ جائے۔ ناقۃ مکثرۃ: اونٹنی جس کو ایک دن میں دو مرتبہ دوہا جائے۔

المکثر: حملہ کی جگہ۔

کثر (ن) کثرنا المحبل: رتی بننا۔

القید علی المقتید: قیدی پر بیڑی کو لٹک کرنا۔

ہ الأثر: دشوار ہونا۔ ہ الغم: سخت غم ہونا۔ کثر الذئق: ڈول کے دست میں چھوٹی رتی باندھنا۔ فلان: درخت خرما کے سے ہلق شمی کی جڑ لینا۔ کثوڑنا: قریب ہونا۔

النار: آگ بجھے لگانا۔ کثریت الشفص: آفتاب ڈوبنے کے قریب ہونا۔ فلان: کھجور کے سے نزدیک کی پتی ہوئی کھجوریں کھانا ہے درخت اور بے پانی والی زمین میں کھتی

کرنا۔ کثر الناقۃ: بو جھل کرنا اور کہا جاتا ہے "کثر یفضل" یعنی وہ کرنے لگا اور اس صورت میں یہ افعال متقاربہ میں سے ہے

کثرنا و کثرنا الأرض للزراع: کھیتی کے لیے زمین جو تہا۔

کثر (س) کثرنا الزجل: ڈول کے دست کی ٹوٹی ہوئی رتی والا ہونا۔

کثر: غم لاحق ہونا۔ کثر الذئق: ڈول کے دست پر چھوٹی سی رتی

کرب

کرت

کرد

۷۰۰

کی ترکاری۔ جس کی بعض قسمیں یا زاہد اور بعض
لسن کے مشابہ ہوتی ہیں۔ واحد کُزْرَانَةٌ۔

الکَارِثُ۔ غم انگیز معاملہ۔ ج کُزَارِثُ۔
الکُرْبُثُ۔ غم انگیز معاملہ۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ
لَكُرْبُثٌ الْأَمْرِ" جبکہ بزدلی کرے اور پیچھے
ہے۔

كُزْرًا وَتَكْزُرًا الشَّعْرُ وَنَحْوَهُ: بال وغيره کا
گنجانا ہوتا۔

الکُرْبُثِيُّ: بے بہ۔ بادل۔ انڈے کا اور پکا چھلکا۔
الکُرْبُثَةُ وَالکُرْبُثَانَةُ: گنجانا بھری۔
الکُرْبُثَاءُ: کئی گھجور۔

كُزْرَجُ (س) كُزْرَجًا وَكُزْرَجٌ وَتَكْزُرَجُ
الْحَبُّونُ: خراب ہونا۔ پھپھوندی لگنا۔ عوام
"عَقْفَنَ" سے تعبیر کرتے ہیں۔

الکُرْجُ۔ ایک قوم کا نام۔ واحد کُرْجِي (ج)
وَالکُرْجُجُ: ایک چیز ہے گھجورے کی شکل کا
جس سے کھیتے ہیں۔

الکُرْجِي: سخت
الکُرَارِجَةُ وَالکُرْجُوجُ: ایک چھوٹی سبز
رنگ کی پھل۔

الکُرْجُوحُ۔ راہب کی کومری۔ ج اَكْرُوحُ۔
كُرْجُوحٌ (ف) كُرْجُوحًا الْمَاءُ إِلَى مَوَاصِعِهِ:
چلانا۔

كُرْجُودٌ (ن) كُرْجُودًا: ہاتھنا۔ الْعُدُوُّ: دشمن
کو ہاتھنا۔ الشَّيْءُ: کانا۔
كَارِجَةٌ مُكَارِجَةٌ: دفع کرنا۔ ہٹانا۔

الکُرْجُودُ۔ گردن کی جڑ۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ
بِکُرْجُودِهِ أَوْ بِکُرْجُودِيَّةٍ" اس نے اس کی گردن کی
جڑ کو پکڑ لیا۔

الکُرْجُودُ وَالْأَخْرَادُ: ایشیا کی ایک قوم کا نام۔
واحد کُرْجُودِيٌّ۔
الکُرْجُودِيَّةُ: گھجور کی بڑی ڈھیری۔

كُرْجُودٌ: پست قدم کی طرح دوڑنا۔ فَلَانًا:
پچھاڑنا۔
تَكْرُودٌ: پست قدمی کا عذوبہ۔ پست قدمی کی طرح دوڑنا۔

الکُرْجُودُحُ: بڑھیا۔ مضبوط مرد۔
الکُرْجُودِاحُ: پست قدم۔
الکُرْجُودِاحُ: دوڑنے میں قریب قریب قدم

الْمُكْرَبُ مِنَ الْمَفَاصِلِ: پھولوں سے بھرا
ہوا۔ مضبوط رسی یا عمارت یا جوڑو وغیرہ۔ حَافِظٌ
مُكْرَبٌ: مضبوط کھر۔

الکُرْبُيْحُ۔ ڈکان یا ڈکان کا سامان۔ ج کُرْبُيْحٌ
(دخیل)

كُرْبُيْحٌ عَذْوِيٌّ: دوڑنے میں کوشش کرنا۔ تیز
دوڑنا۔
الکُرْبُيْحُ: بڑا کھیرا۔

كُرْبُيْحٌ: بیڑی بڑے ہوئے کی طرح چلانا۔
تَكْرُبُيْحٌ مِنَ ظَهْرِ فَرْسِهِ: گھوڑے کی پیٹھ سے
گر پڑنا۔

الکُرْبُيْحُ: کھردرا کپڑا۔ شراب چھانسنے کی
چیز۔ ج کُرْبُيْحِيسُ (دخیل)
رَجُلٌ مُكْرَبٌ مِنَ الْوَأَسِ: گول سرو الامرد۔

كُرْبُيْحٌ: چھلانگ لگانے کے لیے ٹانگوں کو اکٹھا
کرنا۔ بیڑی بڑے ہوئے کی طرح چلنا۔
الشَّيْءُ: لینا اور باندھنا۔

تَكْرُبُيْحُ الْجِلْدُ: کھال کا سکڑنا۔
كُرْبُيْحٌ: پچھاڑنا۔ الشَّيْءُ بِالسَّيْفِ:
تواری سے کانا۔ قَوَائِمَةٌ: ٹانگیں جدا کرنا۔

تَكْرُبُيْحٌ: چوتروں کے بل گرنا۔
كُرْبُيْلٌ: کچڑ میں چلنا۔ پانی میں گھستا۔
الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔ الْحِنْفَلَةُ: گیسوں میں
چھانٹنا صاف کرنا۔

الکُرْبُيَالُ: گیسوں صاف کرنے کی چھٹی۔ رُوِي
ذَهْنِيٌّ كَالْمَاءِ: ج کُرْبُيَالِيٌّ۔
الکُرْبُيْلَةُ: مہ۔ پاؤں کی سستی۔ کہا جاتا ہے
"جَاءَ بِفَشْمِيٍّ مُكْرَبِيْلًا" یعنی وہ اس طرح آیا گویا
کچڑ میں چل رہا ہے۔

كُرْبُيْحَةٌ: پچھاڑنا۔
تَكْرُوحٌ: لینا مشیہ۔ تیز کرنا۔
كُرْبُثُ (مض ن) كُرْبُثًا أَوْ كُرْبُثُ الْفِئْمِ فَلَانًا:
سخت ٹھکین کرنا۔

إِكْرَبُثُ الْحَبْلِ: رسی کا ٹوٹنا۔
أَكْرَبُثُ لِلْأَمْرِ: پروا کرنا۔ کہا جاتا ہے
"هُوَ لَا يَهْتَفِرُ لِهَذَا الْأَمْرِ" وہ اس معاملہ کی پروا
نہیں کرتا۔

الکُرْبُثُ وَالکُرْبُثُ: گندنا۔ ایک بدبودار قسم
باندھنا۔ الرَّجُلُ: بے درخت اور بے پانی
والی زمین میں کھیتی کرنا۔ حد کے نزدیک کی چنی
ہوئی گھجوریں کھانا۔
أَكْرَبُ قَرِيبٌ هُوَ: الْأَمْرُ: قَرِيبٌ
الْوَقُوعُ هُوَ: الْإِنَاءُ: بَرْتَنٌ بَمَرْعَةِ
قَرِيبٌ هُوَ۔
لِي السَّيْرِ: دُوْرْنَا: الْقَبْرِيَّةُ: مٹک
بھرتا۔
كَأَزْدُهُ مُكَارِبَةٌ وَكِرَابًا: قَرِيبٌ هُوَ۔
تَكْرُبُثُ: حد کے نزدیک کی گھجوریں چھانٹنا۔
إِكْرَبُثُ إِكْرَبَاتًا وَإِكْرَبَاتٌ إِكْرَبَاتًا
سخت
ٹھکین ہوتا۔
الکُرْبُثُ: ج کُرْبُوثُ وَالکُرْبُوثَةُ: ج کُرْبُوثُ: غم
اور مشقت۔
الکُرْبُوثُ: ڈول کے دست پر کی چھوٹی رسی
گھجور کی ٹنٹی کی موٹی چوڑی جڑ۔ واحد کُرْبُوثَةٌ۔
الکُرْبُوثَةُ: گول کڑی۔ جس میں خیمہ کے ڈولے
کا سرا رکھا جاتا ہے جس کو فارسی میں کماج اور
پادریں کہا جاتا ہے۔ ج کُرْبُوثُ۔
الکُرْبُوثَةُ: سخت مصیبت۔ ج کُرْبُوثِيٌّ۔
الکُرْبُوثَةُ وَالکُرْبُوثَةُ: گھجور جو ٹنٹی کی جڑ سے
کٹنے کے بعد جٹی جائے۔ ج اَكْرَبُوثَةُ۔
الکُرْبُوثُ: وادی میں پانی بننے کی جگہیں۔
واحد کُرْبُوثَةٌ۔
الکُرْبُوثِيُّونَ وَالکُرْبُوثِيَّةُ: اشراف ملائکہ۔
مقرب فرشتے۔ عبرانی زبان میں کُرْبُوثِیم کہتے
ہیں۔ ج کُرْبُوثُ۔ اور بھی عبرانی لفظ ہی کو
استعمال کرتے ہیں واحد کُرْبُوثُ۔
الکُرْبُوثُ: نے کی گرہ۔ روئی پکانے والے کا
تیلن۔ الِکُرْبُوثُ مِنَ الْأَرْضِ: بے پانی اور بے
درخت والی زمین () وَالْمُكْرَبُوثُ)
ٹھکین۔
الکُرْبُوثَةُ: کُرْبُوثُ کَامُوثُ۔ سخت مصیبت۔
ج کُرْبُوثِيٌّ: کہا جاتا ہے "مَا لِي وَالذَّارِ كُرْبُوثٌ"
یعنی تمہیں کوئی نہیں۔
الإِكْرَابُ: مہ جلد بازی۔ تم کہتے ہو
"تَخْلُدُ جِلْدَكَ بِأَكْرَابٍ" یعنی جانے میں جلدی
کرے۔

رکھے والا۔

الکؤذحة۔ مہ۔ تیز دروڑ۔

المكؤذح۔ فاق۔ ذیل درخار۔

كؤذس الخيل: گھوڑوں کو جمع کرنا اور دستہ دستہ بنانا۔ الشئ: باندھنا۔ بیڑی ڈالنا۔

بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔

الجماز: گدھے کو تیز بٹکانا۔

كؤذس الرجل: ہاتھ پاؤں اکٹھا بنا کر جاننا۔

تکؤذس۔ سکرنا اور بعض کا بعض پر جمع ہونا۔

الکؤذؤس۔ کندھے کی بیڑی۔

الکؤذؤسة۔ گھوڑوں کا بڑا گلہ۔ ہر بیڑی جس

پر گوشت ہو۔ ہر جوڑ کی دونوں بیڑیاں۔ ج

کؤذاس و کؤذائیس۔ کؤذائیس الفرس: گھوڑے کے جوڑ۔

المكؤذس۔ گھسے بدن کا۔

كؤذم۔ موٹے پستہ قد کی طرح دوڑنا۔

القؤم: جمع کرنا۔

تکؤذم۔ گھبرا کر دوڑنا۔

الکؤذم والکؤذؤم من الرجال: موٹا پستہ

قد۔ ج کؤذام و کؤذائیم۔ الکؤذم: ہمارے۔

كؤز (ض) كؤزؤا۔ داخل ہونا۔ پوشیدہ ہونا۔

إلی فلان: پہنچنا (یا)۔ کؤزؤا) انجیل

کا وصف کرنا۔

كؤزؤ البازئ: باز کو سدھانے کے لیے

آکھوں کو سینا اور کھلانا۔

كؤزؤ۔ البازئ: باز کے پرؤں کا گرنا۔

كؤزؤ فکؤزؤة إلی المكان: دوڑ کر پہنچنا۔

عنه: جھانکنا۔

كؤزؤ۔ کؤزؤا اور عاجزی ظاہر

کرنا۔ القؤم: ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری

کو لینا۔

الکؤزؤ۔ چرواہے کا تھیلا۔ چھوٹی بوری۔ کؤزؤ

الجعفل: گھریا کی گولی۔ ج کؤزؤو کؤزؤة۔

الکؤزؤ۔ ایک درخت کا نام جس کا پھل شتالو

کی مانند مگر اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ واحد۔

كؤزؤة۔

الکؤزؤ۔ حاقن۔ نیب۔ منگلو میں عاجز و

درماندہ۔ باز۔ ایک سال کا پرندہ ج کؤزؤرؤة۔

والمكؤزؤو الكؤزؤئ: لیم۔ نجیث۔

الکؤزؤو الکؤزؤؤ۔ انجیل کا واعظ۔

الکؤزؤ۔ ج کؤزؤان والکؤزؤا: شیشی۔ تنگ سر

کا کوزہ۔

الکؤزؤ۔ چرواہے کا تھیلا اٹھانے والا۔ بے

سینگ کا میٹھا۔ من المفعول: کھٹی دار

کبری۔ ج کؤزؤؤو۔

الکؤزؤؤ۔ بئیر۔

الکؤزؤة۔ انجیل کا واعظ۔

كؤزؤم كؤزؤمة الرجل: دوپہر میں کھانا۔

الکؤزؤم۔ بہت کھانے والا۔ چھوٹی ٹاک والا۔

کھاڑا۔

الکؤزؤم والکؤزؤؤم۔ کھاڑا۔ خت مصیبت۔

ج کؤزؤام و کؤزؤائیم۔

الکؤزؤن۔ بڑا کھاڑا۔

الکؤزؤؤن۔ بڑا کھاڑا۔ ج کؤزؤائین۔

كؤزؤس البناء: عمارت کی بنیاد رکھنا۔

الأستشف البئعة او الأؤانی الكئيشة

وغیرہا: وقف کرنا۔ خدمت اللہ کے لیے

مخصوص کرنا۔

أکؤس: المكان: بول و براز سے تھڑپا۔

بول و براز والی جگہ میں داخل کرنا۔

تکؤس۔ بنیاد رکھا جانا۔ وقف ہونا۔ خدمت

اللہ کے لیے مخصوص ہونا۔ الشئ: بہت

ہونا اور سخت ہونا۔ أش البناء: عمارت کی

بنیاد کا مضبوط ہونا۔ لتھڑنا۔ الحب

و لغوة: واند وغیرہ جمع کرنا۔

إنکؤس علیہ: اوندا ہونا۔

الشئ: اوندا ہونا اور داخل ہونا۔

الکؤس۔ ہر چیز کا انہو۔ بول و براز سے تھڑپا

ہوا۔ کبریوں کے بچوں کا یا زہ۔ ج اکؤاس و

جج اکؤائیس۔ کؤس الخؤض: حوض کے

ارد گرد بول و براز سے تھڑپا ہوئی زمین۔

الکؤاسة والکؤاس۔ کتاب کا جزء۔

پمفلٹ۔ ج کؤزؤائیس۔

الکؤؤسی۔ تخت۔ کرسی۔ ج کؤزؤائسی

و کؤاس کؤؤسی الأستشف: پاوری کی اقامت

گھم۔ کؤؤسی الصلک: تخت شالی۔

والکؤؤسی: علم: کما جانا ہے "هو من أهل

الکؤؤسی: یعنی وہ اہل علم میں سے ہے اور کما

جاتا ہے "اجعل لهذا الخاطب کؤؤسیا" اس

دیوار کے لیے پستہ بنا دو۔ کؤؤسی الخؤزؤا: چند

ستاروں کا مجموعہ۔ الکؤزؤایسی: طلاء۔

الکؤزؤاس۔ چھت کے اوپر کا پائٹھانہ۔ ج

کؤزؤائیس۔

الکؤزؤؤس۔ بڑے سرو والا۔ ہر ضخیم چیز۔ سیاہ۔

المكؤس والمكؤؤس۔ سف۔

القلائد: دو دو ہاگوں میں علیحدہ علیحدہ موتی اور

مہرے کو گوندھ کر بڑے مہروں سے جوڑا ہوا

بار۔ المكؤس جو ان پستہ قدر پر گوشت۔

كؤسغ كؤسغة الرجل: دوڑنا۔

فلا تاع: گئے کے جھٹکیا والے حصے پر مارنا۔

الکؤسؤع۔ گئے کا جھٹکیا کی طرف کا حصہ۔

ج کؤزؤاسیع۔ کؤسؤغ القدم: نچنے کا جوڑ۔

الکؤسؤعة والکؤسؤؤعة۔ لوگوں کی

جماعت۔

المكؤسؤع۔ گئے کے جھٹکیا کی طرف اُچھا

ہوا حصہ والا۔ مؤنث مکؤسؤعة۔

كؤسؤف الذابة: چھپائی کی کوچ کانا۔

البجیؤ: اونٹ کے پاؤں کا باندھنا۔

الذؤاة: دو دات میں صوف ڈالنا۔

تکؤسؤف۔ کوچ کتنا۔ پاؤں باندھنا۔ دو دات

میں صوف پڑنا۔ الشئ: بعض کا بعض میں

داخل ہونا۔

الکؤسؤافة۔ آکھ کی کدورت۔

الکؤسؤف والکؤسؤؤف۔ زوئی۔

الکؤسؤفة والکؤسؤؤفة۔ زوئی کا کڑوا۔

زوات کا صوف۔

الکؤسؤة والکؤسؤة۔ ایک چھوٹے سے

پودے کا نام جس کے بیج کو گاؤ دانہ کہتے ہیں جو

چنے کے برابر گول سیاہ سرخی مائل ہوتا ہے اور

دو اسی کام آتا ہے۔

كؤؤس (س) كؤؤسا الجئد: کھال سکرنا۔

الزؤؤل: تھالی کے بعد جماعت والا ہونا۔

كؤؤس۔ ترش زوئی کرنا۔ مكؤؤسة (ایک قسم

کا کھانا) بنانا۔

تکؤؤس و جئہ: ترش زوہ ہونا۔ تیوری چھٹا

القَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ جمع ہونا۔

استكْرَشَ الجَدْيُ: بکری کے بچے کا بوسے پیٹ والا ہونا۔ استكْرَشَتْ اِنْفَحَةُ الجَدْي: بکری کے بچے کے اِنْفَحَةُ کا کرش ہونا (بکری کا بچہ جب تک کچھ نہ کھائے اور صرف دودھ پیتا رہے تو اس کی آنت کو اِنْفَحَةُ کہتے ہیں اور جب وہ کچھ کھانے لگے تو پھر کیڑیں کہتے ہیں)۔

الزَّجْلُ: تیوری چرمانا۔ ترش زوئی کرنا۔ الكِزُّشُ والکِزُّش: چگالی کرنے والے جانور کی اوجھ (مؤنٹ)۔ ج کزُّوش۔ الکرُّش والکِزُّش: لوگوں کی جماعت۔ مرد کے اہل و عیال۔ چھوٹی اولاد۔ ایک بہترین قسم کی گھاس۔ خوشبو کا ذب۔ کیڑے کی گھری۔ ج اکزُّاش وکزُّوش۔ کزُّش القَوْمُ: قوم کا بڑا حصہ۔ کزُّش کُلُّ شَيْءٍ: ہر ایک چیز کا اجتماع۔ التکْوِیْنَةُ: اوجھ میں پکا ہوا کھانا۔

الاکزُّشُ مِنَ الرِّجَالِ: بڑے پیٹ والا اور بقول بعض زیادہ مال والا۔ مؤنث کزُّشاءُ ج کزُّش۔ قَدَمٌ کزُّشاءُ: بزرگوش بھرے ہوئے کتوے اور چھوٹی آنکھوں والا قدم۔ ذَلُو کزُّشاءُ: بڑا ڈول۔ اَتَانٌ کزُّشاءُ: بھرے ہوئے کوکھ کی گدھی۔

المُکْرَشَةُ: کھانا جو گوشت چربی اور اوجھ ملا کر پکاتے ہیں۔

کزُّش (ض) کزُّشاً الشَّيْءُ: کوٹنا۔ ہاتھ سے ٹھوڑنا۔

کزُّش۔ پیر کھانا۔

اکزُّش۔ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔

الکُوْنِصُ: پیر۔ پیر بنانے کی جگہ۔

المِعْکُوسُ: دودھ دوہنے کا برتن۔

کزُّش (ن) کزُّشاً الشَّيْءُ: تہہ تہہ رکھنا۔

کزُّظ (ن) کزُّظاً فِی عَرَضِ فُلَانٍ: طعنہ دینا۔ عزت میں عیب لگانا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَكْرُوظٌ الحَسَبِ" اس کے حسب میں عیب لگایا گیا ہے۔

کوع (ف) وکوع (س) کزُّشاً وکزُّوشاً فِی الصَّاعِ وَالْاِنَاءِ: پانی یا برتن میں نہ لگا کھائی جاتا۔

کوعاً (ف) کزُّشاً: پھل پھلنا۔

کوع (س) کزُّشاً: درد مند پنڈلی والا ہونا۔ پانی

کھانے کا مشتاق ہونا۔ باریک پنڈلی والا ہونا

السَّاقُ: پنڈلی کے اگلے حصہ کا باریک

ہونا۔ کوعت السماء: برسانا۔

اکوعه الصَّيْدُ: شکار کا قریب ہونا۔ اکوع

القَوْمُ: منہ سے پانی پینے کے قابل بنانا۔

تکوع الرِّجُلُ: وضو کرنا۔ اطراف پر

پانی برسانا۔

الکوع: مہ۔ منہ لگا کر پینے کے قابل پانی۔

جانور کی ٹانگیں۔ کینے و فرمایہ لوگ۔ دنی طبیعت

کا۔ واحد جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ کہا جاتا

ہے "زَّجْلٌ کزُّعٌ ورجالٌ کعوع" الکوع

مِنَ التَّبَقِّ وَالغَنَمِ:

گائے بکری کے پائے (قد ذکر مؤنث) اور بقول بعض

کوع نخوش کے بچے کو کہتے ہیں۔ والکوع من

الانسان: گھٹنے سے نیچے۔ پنڈلی۔ ج اکوع

وآکانع۔

الکوع: گھوڑے۔ خچر۔ گدھے۔ ہرنے کا

کنارہ۔

کوع الأرض: زمین کے گوشے۔ کہا جاتا ہے

"إمّش فی کوع الظَّرِيقِ" یعنی راستے کے

کنارے میں چلو۔ آکانع الأرض: زمین کی

آخری حدیں۔

الکوعی: پائے کا بیٹے والا۔

الکوع: فاقہ پانی میں گھسنے والا بچے یا نہ بچے۔

الکوعَة: کوع کا مؤنث۔ ج کوعات۔

الکوعات: پانی کے اوپر کھجور کے درخت۔

الکوع: برتن نہ ہونے کی وجہ سے اوک سے

پانی پینے والا۔

الاکوع: پتلی پنڈلیوں والا۔

الکوع: اسم مبالغہ۔ فرمایہ لوگوں سے دوستی

کرنے والا۔ بارش کے پانی سے سیراب کرنے

والا۔

المکوع: جانوروں کے پانی پینے کی جگہ۔ ج

مکوع۔

فَوْشٌ مُکْوَعٌ القَوَائِمِ: مضبوط ٹانگوں والا

گھوڑا۔

المکوعَة مِنَ التَّحْمِيلِ وَغَيْرِهِ: پانی لگائی ہوئی

کوع۔

کُوف (ن ض) کُوفاً وکُوفاً وکُوفاً

الِحِمَارِ وَغَيْرِهِ: گدھے کا پیٹاب کو سو گدھے کر سر

اٹھانا اور ہونٹوں کو پلٹنا۔ کُوف الشَّيْءُ:

سو گدھا۔ اُكُوْفَتِ البَيْضَةُ: انڈے کا گدھا ہونا۔

الکُوف: ایک ہی چیز سے کاڈول۔

کُوفَاتِ القِدْرُ: ہانڈی کا جھاگ دینا۔ کُوفاً

القَوْمُ: خلط لفظ ہونا۔

تکُوفاً السَّخَابُ: بادل کا تہہ ہونا۔

الکُوفی: بلند بادل۔ اور ایک کھلے کو

کُوفَة کہتے ہیں۔ الکُوفی: انڈے کا اوپر کا

چھلکا۔

المکُوفَع: بد صورت چہرہ والا۔

کُوفَسَ کُوفَسَةً: بیزی بڑے ہونے کی طرح

چلنا۔ البعيرُ: تھک باندھنا۔

تکُوفَسَ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

الکُوفَسُ: زوئی۔

الکُوفَسُ: اجوائن۔

الکُوفِی: سارس۔ ج کُوفِی۔

الکُوفِی: گینڈا۔ اس کو مومیس بھی کہتے

ہیں اور عوام کو کُوفِی کہتے ہیں۔

کُوفِی کُوفِی الشَّيْءُ: بار بار اعادہ کرنا

الروحی: جگلی گھمانا۔ الحَبُّ: دانہ

پینا۔

الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ الرِّجْلُ: قید کرنا

فِی الصِّغْکِ: بہت ہنسا۔ الرِّجْلُ:

ہنسا۔ کھلت کھانا۔ الرِّیَاحُ السَّخَابُ:

ہوا کا بادل کو اُتار دینا۔ متفرق ہونے کے بعد اکٹھا

کر دینا۔ الأمرُ عَنهُ: دفع کرنا۔ ہنانا۔ رو کرنا

بِالذَّحَاجَةِ: عرفی کو بلانا۔

تکُوفَ کُوفِی الأمرُ: منظر ہونا۔

المَاءُ: اپنے پینے کی جگہ میں لوٹ جانا۔

الظَّائِرُ: بڑے کافضائیں منڈلانا۔

الکُوفِی: ایک آبی پرندہ۔

الکُوفِی: مہ گاڑھا دودھ۔ پیٹ کی

گڑگڑاہٹ۔

الکُوفِی: سم والے جانور کا سینہ۔ لوگوں کی

جماعت۔ ج کُوفِی۔ الکرکِو: گھوڑے کے

جوڑ۔
 الکرؤمۃ: کمری وادی۔
 کزکس الشقی: زد کرنا۔ ہٹانا۔ الذابۃ
 چوپائے کو باندھنا (___ و تکزکس)
 الإنسان: اوپر سے نیچے لڑھکانا۔
 الکرؤمۃ: زعفران۔ معطل۔ ایک نباتات کی
 جڑ کہ وہ درس ہے یا اس کے مشابہ۔
 الکرؤمۃ: سرخ رنگ کا گوند۔ گینڈا۔
 کرؤم (ک) کرؤما و کرؤمۃ و کرؤامۃ۔ عزیز و
 تمیز ہونا۔ آسانی سے دینا اور بخشش کرنا۔ فیاض
 ہونا۔ السخاۃ: بارش لانا۔
 کرؤمۃ (ن) کرؤما۔ کرم میں غالب ہونا۔ کہا
 جاتا ہے "کرؤمۃ فکرمۃ" اس نے اس سے
 کرم میں مغفرت کی اور غالب ہو گیا۔
 کرؤمۃ تکزینما و تکرؤمۃ۔ تعظیم کرنا۔ تزیہ
 کرنا۔ کرؤم اللہ و جہۃ: اللہ تعالیٰ ان کو باعزت
 کرے (___ و کرؤم السخاۃ: بادل کا بہت
 پانی والا ہونا۔
 کازمۃ: کرم میں مغفرت کرنا۔ و کازمۃ
 فلانا: میں نے اس کے پاس ہدیہ بھیجا تاکہ وہ
 بدلہ دے۔
 اکرؤم۔ کرم اولاد والا ہونا۔ فلانا
 تعظیم کرنا۔ نفستہ عن المعاصی: بچانا
 محفوظ رکھنا اور توبہ کے موقع پر بولا جاتا ہے "ما
 اکرمۃ لی" یعنی وہ میری تعظیم کس قدر کرتا ہے
 اور فعل زیبائی سے ہونے کی وجہ سے یہ شاذ
 ہے۔
 تکرؤم۔ تکلف کرم کرنا (___ و تکازم)
 عن کذا: بچنا۔ دور رہنا۔
 استکرؤم۔ عمدہ عمدہ چھانت لینا
 الشقی: اچھی چیز طلب کرنا۔ اچھی چیز پانا۔
 الکرؤم۔ مہ۔ درگزر۔ بخشش۔ فیاض۔ ہار
 میں ایک قسم کی کاریگری۔
 الکرؤم۔ صفت بہمنی کریم و طیب۔ اور یہی
 لفظ واحد جمع مذکر مؤنث سب کیلئے مستعمل ہے
 جیسے زجل کرؤم و نسا کرؤم و ازض کرؤم۔
 الکرؤم۔ انکور کی تیل۔ فیصل والا گھبانہ بارغ
 (عامیہ) ج کرؤم۔ ہنٹ الکرؤم او الکرؤمۃ او

الکرؤم شراب۔ الکرؤم: ہار۔
 الکرؤمۃ۔ انکور کی تیل۔ یہ کرم سے خاص ہے
 الکرؤمۃ: سرن کی بڑی کا گول سرا۔ کہا جاتا ہے
 "زجل کرؤمۃ" مر کریم۔
 الکرؤمۃ۔ مہ کہا جاتا ہے "افعل ذلک حنیئا
 و کرؤامۃ لک" میں اس کو تساری نعت و تعظیم کے
 خیال سے کرتا ہوں۔ "و لہ علی کرؤامۃ" فلاں
 کے لئے میرے اوپر بزرگی ہے۔ الکرؤامۃ: امر
 خارق عادت جو اولیاء اللہ سے ظاہر ہو۔ کہا جاتا
 ہے کرؤما و کرؤمۃ و کرؤمۃ و کرؤمی و کرؤمانا
 و کرؤمۃ عین لک۔ یعنی تساری تعظیم کے لئے۔
 الکرؤومۃ۔ کرم کا فعل۔
 الکرؤمۃ۔ مہ۔ تکیہ۔ تکیہ جس پر انسان کو
 عزت و تعظیم کے خیال سے بٹھایا جائے۔
 الکرؤیم۔ صاحب کرم۔ درگزر کرنے والا۔
 اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے "زجل کرؤیم
 مرد تخی۔ دیالو۔ ج کرؤام و کرؤماء۔ اور لفظ
 "کرؤیم" کا اطلاق ہر اچھی اور پسندیدہ اور قابل
 تعریف چیز پر ہوتا ہے۔ زؤق کرؤیم: بہت
 روزی۔ قول کرؤیم: نرم و پسندیدہ قول۔ کتابت
 کرؤیم: معنی الفاظ اور نوائے کلمات سے پسندیدہ
 کتاب۔ وجہ کرؤیم: جمال و محاسن کے لحاظ سے
 پسندیدہ چہرہ۔ الکرؤیمان: ج اور جہاد۔
 الکرؤیمۃ۔ کرم کا مؤنث ج کرؤیمات
 و کرؤایم و کرؤام۔ الکرؤیمۃ: ہر عضو شریف۔
 جیسے ہاتھ کان الکرؤیمان: دونوں آنکھیں۔
 کرؤیمۃ الزجل: نبی الکرؤیمۃ: صاحب کرم و
 حسب۔ کہا جاتا ہے "فلان کرؤیمۃ قومہ" فلاں
 اپنی قوم میں شریف ہو۔ کرؤیمۃ میں تاملتھ کے
 لیے ہے۔ کرؤایمہ العال: عمدہ اور بہترین مال۔
 الکرؤام۔ کرم۔ ج کرؤامون۔
 الکرؤام۔ انکور کی تیل والا اور اس کی تمہائی
 کرنے والا۔
 الکرؤام و الکرؤامۃ۔ بہت زیادہ کرم کرنے
 والا۔ ج کرؤامون۔
 الکرؤمان۔ کرم بہت وسیع اخلاق والا۔ اور یہ
 ندرای کے لیے مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے یا
 مکرؤمان۔

المکرؤم و المکرؤمۃ۔ شریف۔ فیاض۔ ج
 مکارم۔ ازض مکرؤمۃ للنبات: عمدہ زر خیز
 زمین۔
 المکرؤم و المکرؤمۃ۔ کرم کا فعل۔ کرم۔ کہا
 جاتا ہے "فعل الغیر مکرؤمۃ" یعنی اصل غیر کرم
 یا تعظیم کا سبب ہے۔
 المکرؤم۔ لوگوں کا اکرام کرنے والا۔ بہت
 فیاض۔
 المکرؤم۔ مہ۔ ہر ایک کے نزدیک باعزت
 شخص۔
 کزب الزجل: چھوڑنے کو دودھ کے ساتھ
 کھانا۔ حنیئا: مسلمان کو کرم کلا کھانا۔
 الکرؤب و الکرؤب کرم کلا۔
 الکرؤبۃ۔ ایک قسم کا کھانا جو کرم کلا سے بنایا
 جاتا ہے۔
 کزف الکرؤیف: کجوری شنی کو کات لینے
 کے بعد تن میں جو حصہ باقی رہ جائے اس کو کانا
 کزفۃ بالعصا: لاشمی سے مارنا۔ کزف
 الشقی بالسنیف: تلوار سے کانا
 النخلۃ: تنہ کو کجوری شنی کے باقی ماندہ حصہ
 سے صاف کرنا۔
 الکرؤاف و الکرؤاف۔ کجوری شنی کو کات
 لینے کے بعد تن میں باقی ماندہ حصہ۔ واحد کزؤافۃ
 ج کرؤایف۔
 آنف مکرؤف۔ مولیٰ ناک۔
 کرؤ (س) کرؤا و کرؤھا و کرؤامۃ و کرؤامۃ
 و مکرؤمۃ و مکرؤمۃ الشقی: ناپسند کرنا۔ صفت
 ظالمی کارہ۔ صفت مفعول مکرؤومۃ۔
 کرؤ (ک) کرؤامۃ و کرؤامۃ الاخر او
 المنظر: قبیح ہونا۔ صفت کرؤیۃ۔
 کرؤ الشقی فلانا و کرؤ الشقی الی فلان:
 ناپسند کرنا۔
 کرؤ۔ فلانا علی الاخر: مجبور کرنا۔
 الرجل: ناپسندیدہ امر آسانا۔
 تکرؤہ و تکارؤہ الشقی: ناپسند کرنا۔ تکرؤہ
 و تکارؤہ۔ غھبناک ہونا۔
 استکرؤہ الشقی: قبیح پانا۔ قبیح سمٹنا۔
 الکرؤہ و الکرؤہ۔ مہ۔ انکار۔ مشقت جس پر

”وَجَهٌ كَرْمٌ“ یعنی بیج چرہ۔ ”وَذَهَبٌ أَوْ حَمَلٌ كَرْمٌ“ یعنی بہت ٹوس اور مضبوط۔ ”وَفُلَانٌ كَرْمٌ الْبَيْدِ“ فلاں بخیل ہے۔ ج کرم۔
 الكرمۃ: کرم کا نمونہ۔ کہا جاتا ہے ”قَوْسٌ كَرْمَةٌ“ یعنی ایسی کمان جس کی لکڑی خشک ہے مڑتی نہیں۔ ”وَبِكْرَةٌ كَرْمَةٌ“ یعنی ننگ چرخی۔
 الكرمۃ: کماہ کے بچلے حصہ کی دو لکڑیاں۔
 الكرمۃ: بخل۔
 الكرمۃ والکرمۃ: سخت سردی کی وجہ سے کچی یا ایک مرض کا نام۔
 کرم (س) کرمۃ: مُشَطَّطُ الرَّجُلِ: پاؤں کی ہڈی کا چھوٹا ہونا۔
 الكرمۃ والکرمۃ: کرمۃ اور کرمۃ۔
 کرم (ن) کرمۃ: مُسَبِّدٌ كَرْمًا اور چپ رہنا۔
 الكرمۃ وَنَحْوَهَا: اخروٹ وغیرہ کو اگلے دانوں سے توڑنا اور گرمی نکالنا۔
 سخت دانت کا نام۔
 کرم (س) کرمۃ: بخیل ہونا۔ بہت کھانے والا ہونا۔ چھوٹی ناک یا انگلی والا ہونا۔ صفت اکرم پیش قدمی سے ڈرنا۔
 کرمۃ البزء ذأصابه: سردی کا اگلیوں کو سکرا دینا۔
 اکرمۃ: سکرا۔ عَنِ الطَّعَامِ: بہت کھانا یہاں تک کہ خواہش باقی نہ رہے۔
 تَكْرَمُ الْفَاقِهَةُ: مہرہ بغیر جھیلے ہوئے کھانا۔
 الكرمۃ: ننگ ہتھیلی۔ چھوٹی اگلیوں والا۔
 الكرمۃ: بخل۔ بہت کھانا۔ ناک یا اگلیوں کی کوتاہی۔ گھوڑے وغیرہ کے ہونٹ کی چھوٹائی اور موٹائی۔ کہا جاتا ہے ”لھی یدہ کرم“ جبکہ افعال خیر کے لیے ہاتھ نہ کھلے۔
 الكرمۃ مِنَ الرَّجَالِ: بزدل خائف مرد۔
 الكرمۃ مِنَ الرَّجَالِ: اتنا کھانے والا کہ ناپسند کرنے لگے۔
 المکرّم: چھوٹی ہتھیلی اور قدم والا۔
 کرمی بکرعی کرمۃ: اپنے آزاد کردہ سے احسان کرنا۔
 کرم (ن) کرمۃ الشقی: باریک کوشا۔

کرمی وکرمین وکرمین وکرمات وکرم۔
 الكرمۃ والکرمۃ: زیرہ۔
 کرمی بکرعی کرمۃ الرجل: تیز روٹنا۔
 التهمز: نمر کو کھودنا۔ بالکرمۃ: گیند کھیلنا۔
 کرمی بکرعی کرمی الرجل: اونگھنا۔ صفت کروکرمیان وکرمی۔
 کمازۃ مکازۃ وکمازۃ الذابۃ أو الذاب: چوپایہ یا مکان کرایہ پر دینا۔ صفت مکاز۔
 اکرمی اکرمۃ الشقی: زیادہ ہونا۔ کم ہونا۔ (ضد)۔ فلاں۔ اطاعت الہی میں شب بیداری کرنا۔ الامر: مؤخر کرنا۔ بیچے ڈالنا۔
 الحدیث بات طویل کرنا۔ فلاں۔
 ذابۃ أو ذابۃ: چوپایہ یا مکان کرایہ پر دینا اور اسم۔
 الكرمۃ والکرمۃ: سونا۔
 تکرمی تکرمۃ: سونا۔
 اکرمی منۃ الذاب و غیرہ: مکان وغیرہ کرایہ پر لینا۔
 تکرمی واستکرمی الذاب و غیرہ: مکان وغیرہ کرایہ پر لینا۔
 الكرمۃ والکرمۃ: کرایہ۔
 الکرمی: اونگھنے والا۔ کرایہ پر لینے والا۔ کرایہ پر دینے والا۔ ج اکرمیاء: بہت چیز۔ ایک درخت ہے جو ریگستان میں ہوتا ہے۔ واحد کرمۃ۔
 الکرمیان: اونگھنے والا۔
 المکرّمی: جانوروں کو کرایہ پر دینے والا۔ ج مکازون۔ اور اب اکثر گدھے اور چمچروالوں پر بولا جاتا ہے۔
 المکرّمی مِنَ الْإِبِلِ: آہستہ و نرم رفتار اونٹ۔
 کرم (ن) کرمۃ الشقی: ننگ کرنا۔ کرمۃ خطاۃ: قدم قریب قریب ہونا۔ المزمۃ وفضلجھا: عورت کا بازو بند کو بازو سے بھرنے والا۔ کمازۃ وکمازۃ: سکرا۔ خشک ہونا۔
 کرم: سردی سے کچی لاحق ہونا۔ زکام ہونا۔
 اکرمۃ: اللہ فلاں: کچی کی بیماری لگانا۔ صفت مفعول۔ مکرّم: سکرا۔
 اکرمۃ: سکرا ہوا۔ خشک۔ کہا جاتا ہے

کسی کو مجبور کیا جائے۔ اور بقول بعض کرمۃ بالصم جس پر تم اپنے آپ کو مجبور کرو اور کرمۃ بالفتح جس پر کسی غیر کو مجبور کرو۔ اور کہا جاتا ہے ”شقی کرمۃ“ مکرمہ چیز۔ ”ورجل کرمۃ“ ناراض مرد۔ ”وجه کرمۃ“ بیج چرہ۔ ”وقعله کرمۃ“ یعنی اس نے اس کو مجبور کیا۔
 الكرمۃ: بیج۔
 الكرمۃ: سخت زمین۔
 الكرمۃ: کراہت۔ کہا جاتا ہے ”آینفک کرمۃ“ تیرے غضبناک ہونے کی کراہت سے میں تیرے پاس آیا۔
 الكرمۃ: نمونہ کرمہ۔ لڑائی کی شدت۔
 صفت۔ ج کرمۃ: ذوالکرمۃ: شمشیر براس۔ کہا جاتا ہے ”لقیث ذونۃ کرمۃ“ وکمازۃ“ اس کے درے صمیمتوں اور کمازات سے میں دوچار ہوا۔
 المکرّمۃ: کرمہ۔ ج مکرّمۃ۔
 المکرّمۃ والمکرّمۃ: ناپسندیدہ و دشوار چیز۔ ج مکرّمۃ۔
 المکرّمۃ: سف۔ شرم۔ ناپسندیدہ۔
 المکرّمۃ: سختی۔ کہا جاتا ہے ”هو ذومکرّمۃ“ وہ سختی میں ہے۔
 کرمۃ وکرمۃ: الاوض: کھودنا۔
 الامر: بار بار اعادہ کرنا۔ المزم: کونین کا من درخت کے تنوں سے بنانا۔ بالکرمۃ: گیند کھیلنا۔ کرمۃ الذابۃ: تیز روٹنا۔
 کرمۃ تکرمی کرمۃ: السناق: بیدلی کا باریک ہونا۔ المزمۃ: موٹے بازوؤں والی ہونا۔
 الكرمۃ: بازوؤں کی موٹائی۔ قدم کے پچھے کا قریب ہونا اور ایزوں کا دور ہونا یا پتلیوں کی باریکی۔ کرمۃ وکرمۃ۔
 الكرمۃ: ایک پرندہ۔ جسورے رنگ کا لمبی چونچ لک اور کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو سوتا نہیں اور اس کا نام ایسا رکھا گیا ہے جو ضد پر دلالت کرتا ہے اس وجہ سے کہ کرمی کے معنی نیند کے ہیں۔
 مزمۃ کرمۃ: ج کرمۃ وکرمۃ۔
 المکرّمۃ: ہر وہ چیز جس کو تم گول بناؤ۔ ہر گول چیز۔ اور نسبت کے لیے کرمی وکرمی ج

کسح (س) کسبنا۔ چھوٹے چھوٹے دانوں والا ہونا۔ چھوٹے تالو والا ہونا۔ صفت اکسح مؤنث کسبناج کسح۔
الکسح۔ اندام نمائی۔
الکسبیس۔ ٹوٹی ہوئی روٹی، شکر اور بقول بعض جوادر پینا سے بنی ہوئی شراب۔ کھجور کی نیزہ۔ خشک شدہ گوشت کہ اس کو کوٹ کر یا ربیک کر لیتے ہیں اور بطور توشہ کے سفر میں لے جاتے ہیں۔

الْمَكْسَبُ وَالْمَكْسِبُ وَالْمَكْسِبَةُ۔
کمانی۔

الکتاب۔ بھیڑیا۔

الکُتْبُ۔ کلی۔

الکُتْبِجُ۔ کلی۔

الکُنْبُرُ۔ ہاتھی دانت کا لنگن کی مانند ایک زیور۔ سح کسبو۔

الکُنْبُرَةُ۔ دھنیا۔

الکُنْبِجُ۔ زار کے علاوہ ایک دھاگا جس کو ذی اپنے لباس پر باندھتے تھے۔

کسح (ف) کسحنا التبت: گھر میں بھاڑو رہنا۔ کسحبت الریح الأرض: ہوا کا مٹی کو اڑا لے جانا۔ الشی: کانا۔ کہا جاتا ہے "آیتنا نبی فلان فکسبتناہم" یعنی ہم بنی فلاں پر پہنچے اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔

کسح (س) کسحنا۔ ہاتھ پاؤں میں بے حسی والا ہونا۔ ایک پاؤں کے بو جھل ہونے کی وجہ سے چلنے میں گھٹ کر چلنا۔ صفت اکسح سح کسحان کہا جاتا ہے "ما اکسحنا" کس قدر بو جھل ہے۔

کاسحہ مکاسحہ۔ بہت سخت جھڑا کرنا۔

اکسح الشی: لے جانا۔ کہا جاتا ہے "أعازروا علیہم فاکسحواہم" یعنی انہوں نے ان کو لوٹا اور ان کا سارا مال لے گئے۔

الکسح۔ مہ۔ عاجزی۔

الکساحۃ۔ کوڑا کرکٹ۔ ہاتھ پاؤں کی بے حسی اور اکثر پاؤں کی بے حسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

الکسح۔ وہ شخص کہ جس سے تم مدد طلب کرو اور وہ تمہاری مدد نہ کرے۔

الاکسح۔ ہاتھ پاؤں کی بے حسی والا۔ لکڑا لہجان کسحان۔

الکسبج والکسبج والکسحان ہاتھ پاؤں کی بے حسی والا۔

الکساح۔ اونٹوں کا ایک مرض۔

المکسحۃ۔ جھاڑو۔

المکسح۔ پھیل کر ہوا کر گیا ہوا۔ جیسے غوڈ مکسح۔

المکسوح۔ مہ جمل مکسوح: سخت لکڑا اونٹ۔

کسحبت کسحبتہ ڈر کی وجہ سے چھپ چھپ کر چلنا۔

کسند وکسند (ن) کسنادا وکسودا الشی: خواہش مندوں کی کمی کی وجہ سے راج نہ ہونا۔ کسندت الشوق: بازار کا مندا ہونا۔ شی کی صفت کسبند وکسبند اور سوق کی صفت کسبند وکسبند وکسند۔

اکسند القوم: مندے بازار والا ہونا۔

اکسندت الشوق: بازار کا مندا ہونا۔ اکسند الشی: غیر راج ہونا۔

انکسندت الغنم إلى الغنیم: واپس ہونا۔ لوٹنا۔

الکسند۔ قط (ایک روایا نام)

الکسیند۔ مندا۔ گھٹیا۔

کسوز (ض) کسوزا الغوذ وکثل ضلپ: توڑنا۔

العسکر: لشکر کو شکست دینا۔ الوصیۃ: وصیت منسوخ کرنا۔ الشغور: شعر کا وزن درست نہ کرنا۔ الظایر: جتنا خبیثہ پرندہ کا اترنے کے لیے پروں کو سینٹا۔

الخزف: حرف کو زیر دینا۔ الوصاۃ: نکمہ کو موڑنا اور ٹیک لگانا۔

المتاع: سامان ایک ایک کر کے بیچنا۔ کسور من ظرفہ وعلی ظرفہ: نگاہ پست کرنا۔

فلان عازن مرادہ: پھیرنا۔

کسوز (ض) کسوزا الظایر: پرندہ کا اترنے کیلئے پروں کو سینٹا۔

کسوز (س) کسوزا: کمال ہونا۔

کسور بمعنی کسور۔ تشدید مبالغہ اور بکھیر کیلئے ہے وکسوریت المزاة ونحوها التوز علی کذا فکسوز آیتہ نے فلاں چیز پر روشنی ڈالی اور اس پر روشنی پڑ گئی۔ کسوز الکلیحہ: جمع کسر بنانا۔ اور کہا جاتا ہے "کسوز الکتاب علی عدۃ

أبواب" کتاب کو چند ابواب پر منقسم کیا۔

تکسوز: ٹوٹنا۔ الشی: توڑنا۔

انکسوز۔ ٹوٹنا۔ العسکر: لشکر کا

المکسوس۔ مہ۔ ٹوٹی ہوئی روٹی۔
کسناۃ (ف) کسنا۔ بچھا کرنا۔ کسنا الذانیۃ: چوپایہ کو ہانکنا۔ القوم: خصوصت میں غالب آنا۔ ہالسیغ: کھوار سے مارنا۔
الکس۔ من اللیل: رات کا ایک ٹکڑا۔
الکس والکسوز من کسح شی: پھیلا حضرت

اکسنا۔ کہا جاتا ہے "زکب کسناۃ" یعنی وہ گردی کے بل گرا "وآتینا فی اکسناۃ الشهر" یعنی ہم میند کے آخر میں آئے۔ "ومرؤا فی اکسناۃ المنہزمین او علی اکسناۃ ہم" یعنی وہ لوگ شکست خوردہ جماعت کے نشان قدم پر اور ان کے پیچھے گئے۔

کسب (ض) کسبنا وکسبنا وکسبنا واکسبنا مالاً او علماً: مال یا علم حاصل کرنا۔ طلب کرنا۔ کمانی کرنا۔ کسب الشی: جمع کرنا۔ کسب الاثم: گناہ اٹھانا۔ لاهلیہ: کمانی کرنا۔

کسب وکسب واکسب فلاناً مالاً او علماً: مال یا علم حاصل کرنا۔

امتکسب وکتسب فلاناً: کمانی کرنا۔

تکسب الرجل: کمانے کی کوشش کرنا۔

الکسب۔ مہ۔ کمانی۔

الکسبوا الکسبۃ۔ کمانی۔

الکاسب۔ فاد۔ ابو کاسب: بھیڑیا۔

الکاسبۃ۔ کاسب کا مؤنث ج کواصب الکواصب: انسان یا پرندہ کے جسم کے جوڑ۔ شکاری جانور۔

الکسوز والکشاب۔ بہت کمانی کرنے والا۔

كَسَفَتْ وَانْكَسَفَتْ الْغَيْلُ بِأَذَانِهَا
گوڑوں کا ٹانگوں میں ڈوم دینا۔
تَكْسَعُ لِي ضَلَالِيهِ: گمراہی کی انتہا کو پہنچنا۔
الْكُتْعُ لِي الْغَيْلِ: گوڑے کے کمر کے
پاس جوڑے ارد گرد سفیدی۔
الْكُتْعُ: روٹی کے کٹڑے۔
الْكُتْعَةُ: پیدھالی پر سفید داغ۔ پرندہ کی دم
کے نیچے سفید پر۔ ج کُتْعُ: کام کرنے والے
بیل۔ گدھے۔ غلام۔
الْأَكْسَعُ: من الغَيْلِ: کمر کے پاس جوڑے
ارد گرد سفیدی والا گھوڑا۔ مِنَ الظَّيْرِ: دم
کے نیچے سفید پر والا پرندہ۔
رَجُلٌ مَكْسَعٌ: بے بیابا مرد۔
الْكُشْفُومُ: گدھا۔
كَسَفَ (ض) كَسَفًا الْقَوْبَ: کپڑا کاٹنا
اللَّهُ الشَّفْسُ او الْقَمَرُ: گمن لگانا
بَصْرَةَ: نگاہ پست کرنا۔ الشَّفْسُ
النُّجُومُ: آفتاب کی روشنی کا ستاروں پر غالب
آنا۔
الشَّقَى: ڈھانٹنا۔ كَسَفَهُ الْخُزْنَ وَغَيْرَهُ:
مٹگین کر دینا۔
كَسَفَتْ (ض) كُسُوفًا الشَّمْسُ: آفتاب
میں گمن لگانا۔ وَجْهَهُ: توری چڑھنا۔
متغیر ہونا۔ حَالَهُ: بڑا ہونا۔ كَسَفَ أَعْلَهُ:
امید منقطع ہونا۔ كَسَفَ بَالَهُ: بٹی میں بڑا
خیال آٹیا امید کا گھونٹا ہونا۔
تَكَسَفَتِ الشَّمْسُ: آفتاب میں گمن لگنا۔
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ: آفتاب اور
ماہتاب میں گمن لگنا۔
كَسَفَ الشَّقَى: کٹڑے کٹڑے کرنا۔
الْكُتْفُ: مہ عرب کے امثال سے ہے
"اَكْسَفًا وَامْسَاكًا" یعنی کياتر ش روٹی اور نکل
بھی (یہ امثال ترش روو نکل کیلئے استعمال ہوتی
ہے)
الْكَايْفُ: فَا: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ كَايْفُ
النَّالِ" یعنی فلاں بڑے حال والا ہے "وَكَايْفُ
الْمَوْجُو" ترش رو "وَيَوْمٌ كَايْفٌ" سخت و
خوفناک دن "وَرَجُلٌ كَايْفٌ" مٹگین مرد جو غم

التَّكْسِيرُ: مہ - والتكسيف عند
المهندسين: تیا کٹس۔
الْكَايِسُ: فَا: ج كُسْرٍ: عقاب۔ کہا جاتا ہے
عُقَابٌ كَايِسٌ: ٹوٹ پڑنے والا یا شکار کیے ہوئے
جانور کو توڑ دینے والا عقاب۔
الْكَايِسَةُ: کاسر کا مؤنث ج کَايِسَاتُ
وَكُسْرٌ وَكُوَايِسٌ: الْكُوَايِسُ: شکاری پرندہ۔
الْكَشَارُ: اسم مبالغہ۔
الْمَكْسِيرُ: توڑنے کی جگہ۔ مَكْسِيرٌ
الشَّجَرَةُ: درخت کی جڑ یا درخت کا تنہ جہاں
سے ٹہنیاں توڑی جائیں۔ آزماش۔ کہا جاتا ہے
"فَلَانٌ ظَلِيْبُ الْمَكْسِيرِ" فلاں آزماش کے
وقت اچھا ہے۔
الشُّكَايِسُ مِنَ الْجِيْزَانِ: پڑوسی جس کے
مکان کا گوشہ تمہارے مکان کے گوشہ سے ملتا ہوا
ہو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ جَارِي شُكَايِسِي" وہ میرا
پڑوسی ہے کہ اس کے مکان کا گوشہ میرے مکان
کے گوشہ سے ملتا ہوا ہے۔
الْمُكْسَرُ: مفع۔ الْمُكْسَرُ مِنَ الْأَوْدِيَةِ:
وادئ جس کے موڑ بہہ رہے ہوں۔ الجمع
الْمُكْسَرُ: جمع سالم کی ضد۔ جس میں واحد وزن
بائی نہ رہے۔ جیسے رَجُلٌ سے رَجَالٌ۔ مُنْجِدٌ
سے مُنْجِدٌ۔
الْمُكْسُوْرُ: مفع۔ صَوْتُ مَكْسُوْرٍ: نرم و
کمزور آواز۔
الْمُتَكْسِرُ: فَا: کہا جاتا ہے "وَأَيْتُهُ
مُتَكْسِرًا" میں نے اس کو ست دیکھا۔
كَسَفَهُ (ف) كَسَفًا: دھکارنا۔ دھکارنے
ہوئے بچھا کرنا۔ چوڑوں پر ہاتھ یا لات مارنا۔
كَسَعَ السَّيْفِيَّةُ فِي الْبَحْرِ: کشی کو سمندر میں
اتارنا اور چلانا۔ كَسَعَهُ بَكْدًا: تابع بنانا۔ کہا جاتا
ہے "وَزِدْتَ الْغَيْلَ يَكْسَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا"
گوڑے آئے اس حال میں کہ بعض بعض کے
پیچھے تھے۔ "وَأَتَّبَعُ فَلَانٌ أَدْبَارَهُمْ يَكْسَعُهُمْ
بِالسَّيْفِ" فلاں ان کے پیچھے گیا اور کھوار سے ان
کو دھکار رہا تھا۔ "كَسَفَتِ الرَّجُلُ بِمَسَاءَةِ"
جگہ منگلو کرے اور آخر میں ایسی بات کہے جو
تکلیف دہ ہو۔

كَلَسَتْ كَمَا نَاطِرٌ بَرَاكِنْدَهُ هَوَانًا: صفت دونوں معنی
کے لحاظ سے کسور ہے اور مکر نہیں کہا جاتا
الْحَزَنُ: گری کم ہونا۔ الْعَجِيْبُ:
گندھے ہوئے آنے کا نرم ہونا اور خمیر ہونا
عَنِ الشَّقَى: عاجز ہونا۔
اِكْسَرَ الشَّقَى: توڑنا۔
الْكُسْرُ: مہ زیر کی حرکت۔ بہت کم
فِي الْحِسَابِ: ایک سے کم جیسے تہائی چوتھائی
اور اس کے مقابلہ میں صحیح ہے ج كُسُوْرٌ وَج
كُسُوْرَاتُ۔
الْكُسْرُ وَالْكُسْرُ: عضو کا جزو۔ بڑی کا جزو
گوشت کے۔ کہا جاتا ہے "أَيْتُهُ وَهُوَ يَنْظِعُهُمُ
النَّاسُ مِنَ كُسُوْرِ الْإِبِلِ" میں اس کے پاس آیا
اور وہ لوگوں کو اونٹ کے اعضاء کھلا رہا تھا۔
کو فخری کا ایک گوشہ۔ خمیر کا وہ کنارہ جو زمین پر
لگا ہوا ہو۔ گوشہ ج اِكْسَارٌ وَكُسُوْرٌ۔ كُسُوْرُ
الْأَوْدِيَةِ: وادی کے موڑ (اور اس آخری معنی
میں اس لفظ کا واحد نہیں) "هَذِهِ أَرْضٌ ذَاتُ
كُسُوْرٍ" یہ زمین اونچی نہیں ہے۔
الْكُسْرَةُ: كُسْرٌ کا اسم مرہ۔ زیری حرکت۔
كَلَسَتْ: کہا جاتا ہے "وَقَفَّتْ عَلَيْهِمْ
الْكُسْرَةُ" یعنی کلسٹ کھا گئے۔ "وَبَقِيَتْ
كُسْرَةٌ مِنَ الشَّهْرِ" یعنی اس کی آٹھ میں نیند کا
غلبہ ہے۔ بیداری کی وجہ سے۔ ج كُسْرَاتُ اور
کہا جاتا ہے "هُوَ ذُو كُسْرَاتٍ وَهَزْرَاتٍ" وہ
ایسا شخص ہے جس کو ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے۔
الْكِسْرَةُ: ٹوٹی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔ ج كِسْرٌ
وَكَسْرَاتُ وَكَسْرَاتُ۔
كُسْرِيٌّ وَكُسْرِيٌّ: شاہان فارس کا نام۔ ج
اَكَايِسَةٌ وَاَكَايِسٌ وَكَسَايِسَةٌ وَكُسُوْرٌ اور
نسبت کے لیے كُسْرَوِيٌّ اگر كُسْرِيٌّ کی طرف
نسبت ہو اور اگر كِسْرِيٌّ کی طرف ہو۔
كِسْرَوِيٌّ اِكْسِرِيٌّ۔
الْكُسَارُ وَالْكُسَارَةُ مِنَ الْحَطَبِ
وَنَحْوِهِ: کھورا۔ چھین۔
الْكَيْسِرُ: ٹوٹا ہوا۔ ج كُسْرِيٌّ وَكَسْرَانِيٌّ۔
الْإِكْسِيرُ: وہ چیز جو چاندی وغیرہ کو سونا بنا
دے۔

کی وجہ سے بڑھال ہو گیا ہو۔
 الْكَيْسُفَةُ - کلزا ج کسفف وکسفف
 وَاكْسَافٌ وَكُسُوفٌ -
 الْكَيْسِيفَةُ - کلزا۔
 كَسَيْتُ كَسَيْتُ الشَّيْءَ سَخْتًا كَوْنًا -
 الْكَسَيْتُ كَسَيْتُ - پست قدم وارو۔
 الْكَسَيْتُ كَسَيْتُ - مدد وقف کی حالت میں ک ضمیر
 مؤنث کے ساتھ سین ملانا جیسے بکس و اکثر
 مٹکس بک و اکثر ملک میں (یہ لغت جو نیم
 کی ہے)
 الْكَسَيْتُ - ایک کھانا ہے جو آنے سے بایا
 جاتا ہے۔
 كَيْسِلٌ (س) كَسَلًا وَتَكَاسَلًا كَالِمْ هُوَ -
 جس کام سے سستی نہ کرنا چاہئے اس میں سستی
 کرنا۔ صفت کسیل و کسلان ج کسالی و
 کسالی مؤنث کسلی و کسلان و کسلی۔
 كَيْسِلٌ (س) كَسَلًا وَكَسَلًا - بے انزال کے
 جماع کرنا یا سستی کو باہر کرنا۔
 اكْسَلُ الْاَمْرُ فُلَانًا كَالْحَلِي فِي الْوَالِدِ -
 الْكَسَالَةُ - بیکاری۔
 الْكُسُولُ - کال۔ ناز پروردہ لڑکی کے لیے
 وصف ہے جو اپنی مجلس سے جدا نہ ہو۔
 الْكَيْسِلُ وَالْمَيْكَسِلُ - ذمیا کے کمان کی
 تات جبکہ آٹا دی جائے۔ نَسَبٌ وَمَيْكَسِلٌ: وہ
 نسب سے سرداری اور افعال خیر میں خودداری نہ
 ہو۔
 الْمَيْكَسَلُ - کال (قد کرو مؤنث) ناز پروردہ
 لڑکی جو اپنی مجلس سے جدا نہ ہو۔ یہ اس کے لیے
 باعث مدح ہے۔
 الْمَيْكَسَلَةُ - سب کالی۔ کہا جاتا ہے "الشَّيْخُ
 مَيْكَسَلٌ" آسودگی باعث کالی ہے "فُلَانٌ لَا
 تَكْسِلُهُ الْمَكَاسِلُ" اسباب کالی فلاں کو کال
 نہیں بناتے۔
 كَسَمَ (ض) كَسَمًا الْيَابِسُ: خشک چیز کو ہاتھ
 سے چورا کرنا۔ عَلِيٌّ عَيْالٌ: کمائی حاصل
 کرنے کے لیے محنت کرنا۔ نَازٌ
 الْحَزْبُ: لڑائی بھڑکانا۔
 الْكَسْمُ - مد۔ خشک چیز کا چورہ جو تمہارے

ہاتھوں میں باقی رہ جائے۔
 الْكُسُومُ - کر گزرنے والا۔
 الْكَيْسُومُ - ہمت گھاس۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ
 زَوْجَةٌ كَيْسُومٌ هُوَ الْكُسُومُ وَيَكُسُومُ" یہ سر سبز
 و شاداب اور گنجان بان ہے۔
 خَيْلٌ اَكَامِيْمٌ - ہمت سے گھوڑے جو ایک
 دوسرے کے اوپر ہوں۔
 كَسَمَلٌ كَسَمَلَةٌ - قریب قریب قدم رکھ کر
 چلنا۔
 كَسَا يَكْسُو كَسُوًا وَكَسَى الْفُؤَبَ فُلَانًا:
 کپڑے پہنانا۔ كَسَاءُ شِعْرًا: اشعار سے مدح
 کرنا۔
 كَيْسِي يَكْسِي وَكَيْسِي كَسَا الْفُؤَبَ: کپڑا
 پہننا کسبی یكسبی كَسَاءٌ: بزرگ ہونا۔
 تَكْسَى تَكْسِيًا بِالْكَسَاءِ: اوڑھنا۔ پہننا۔
 كَسَا مَكْسَاةً فُلَانًا: فخر کرنا۔
 اِكْسَى - لباس پہننا۔ اِكْسَيْتِ الْاَرْضَ
 بِالْتِبَاتِ: نباتات سے چھپ جانا۔ اِكْسَيْتُهُ
 فُلَانًا: کپڑے پہنانا۔
 اِسْتَكْسَى فُلَانًا: کسی سے لباس مانگنا۔
 الْكَايِسِيُّ - فہ۔ لباس پہننے والا۔ ج كَسَاءَةٌ -
 الْكَسَاءُ - بزرگی و شرف۔
 الْكَيْسَاءُ - کپڑا۔ کسب۔ ج اِكْسَيْتُ -
 الْكُسُوَّةُ وَالْكَيْسُوَّةُ - لباس۔ ج كُسَيْ
 وکسبی۔
 الْاِكْسِيُّ - ہمت پہننے والا۔ ہمت لباس دینے
 والا۔ عرب کے امثال میں سے ہے "هُوَ اِكْسِي
 مِنْ بَصَلَةٍ" اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو ہمت
 زیادہ کپڑے پہنے۔
 الْكَيْسِيُّ چوڑا کاپچھلا حصہ۔ ہر چیز کا پچھلا حصہ
 ج اِكْسَاءٌ - کہا جاتا ہے "زَكَبَ اِكْسَاءُهُ" وہ
 گدی کے بل گرا۔
 كَشَّ (ض) كَشًّا وَكَشَيْتُ الشَّيْءَ: آگ نکلنے
 وقت سانس سانس کی آواز نکالنا۔ الْجَوْرَةُ:
 شراب کے ٹکڑے میں جوش آنا۔
 كَشَّتْ كَشِيْفًا الْحَيْثُ: سانپ کی کھال سے
 آواز نکالنا۔ كَشَّ الْجَحْلُ: اُدٹ کا چلی مرتبہ
 بڑھانا۔ الْبَقْرَةُ: گائے کا آواز نکالنا۔

كَشًّا الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ: دھکارنا۔ اُشَاتَا
 تَكَاسَبَتِ الْاَفَاعِي: سانپوں کا آپس میں آواز
 نکالنا۔
 الْكَشُّ - وہ چیز جس سے درخت خرابو کا ہمارا
 جائے۔
 الْكُشْفَةُ - پیشانی یا سر کے اگلے حصہ کے
 بالوں کا گچھا۔
 الْكَشِيْشُ - مد۔ شراب کے جوش کی آواز۔
 كَشًّا (ف) كَشًّا الشَّيْءَ: چھیلنا۔ اگلے
 دانتوں سے کٹ کر کھانا۔ فُلَانًا بِالْمَشِيْفِ
 كَلْوَارٍ سَارًا () وَكَشًّا اللِّحْمَ:
 گوشت بھون کر خشک کرنا۔ صفت مفعولی
 كَشِيْفٌ وَكَشَا الرَّجُلُ: بھونے ہوئے گوشت کا
 کلزا کھانا۔ كَشًّا الْمَرْءَةَ: جماع کرنا۔
 كَشَيْتُ (س) كَشًّا وَكَشَاءًا يَدُهُ: ہاتھ
 پھٹنا۔ جمری دار ہونا۔
 كَشًّا وَكَشِيْفًا كَشًّا وَكَشَاءًا وَتَكَشًّا
 الرَّجُلُ مِنَ الطَّعَامِ: شکم بھر کر کھانا۔
 صفت كَشِيْفٌ وَكَشِيْفٌ - تَكَشًّا الشَّيْءَ: چھیل
 جانا۔ اللِّحْمَ: خشک بھنا ہوا گوشت کھانا۔
 كَشًّا تَكَشِيْفَةَ اللِّحْمِ: خشک بھنا ہوا گوشت
 کھانا۔
 الْكَشَاءَةُ - عیب۔ کہا جاتا ہے "مَالِي جَسِيْدُهُ
 كَشَاءَةٌ" اس کے جسم میں کوئی عیب نہیں۔
 كَشَبٌ (ض) كَشَبًا وَكَشَبَ اللِّحْمَ:
 گوشت ہمت کھانا۔
 الْكُشْبَانُ اِنْكَشَانُهُ ج كَشَابِيْنٌ -
 وَرَهُو الْكُشْبَانُ: ایک قسم کی نباتات۔
 الْكُشُوْتُ وَالْكُشُوْفِيُّ وَالْكُشُوْفِيُّ
 وَالْكُشُوْفَاءُ - ایک قسم کی گھاس ہے جو درخت
 وغیرہ پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی جڑ نہیں
 ہوتی اور اس کے پتے بھی نہیں ہوتے۔
 كَشَحٌ (ف) كَشَحًا الْبَيْتُ: گھر میں بھاڑو
 دینا۔ الْقَوْمُ: پرانہ کرنا دھکارنا۔
 عَنِ الْمَاءِ: پانی پر سے واہس ہونا۔ لُهُ
 بِالْعَدَاةِ: دشمنی کرنا۔ الدَّابَّةُ: چوپایہ کا
 ٹانگوں کے درمیان دم دینا۔ الطَّائِرُ:
 پرندہ کا تیز واہس آنا۔ الظَّلَامُ او الضُّوْءُ

کشف

کشط + کشف

۷۰۸

کشف

الزَّجْلُ أَوْ الْقَرْسُ: کھلی ہوئی پیشانی والا ہونا۔
 كَشَفَ الشَّيْءَ: کھولنا۔ ظاہر کرنا۔
 فَلَانًا عَنِ الْأُمْرِ: ظاہر کرنے پر مجبور کرنا۔
 كَشَفَهُ بِكَذَا: خبردار کرنا۔ بِالْعَدَاوَةِ
 کھلی کھلی دشمنی کرنا۔
 اكْشَفَ: ہنسنے میں مسوڑھوں کو ظاہر کرنا۔
 انْكَشَفَ الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔
 تَكَشَّفَ الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔ النَّزْفُ:
 بجلی کا آسان پر پھیلنا۔ الزَّجْلُ: زُروسوا ہونا۔
 تَكَاشَفَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کے عیوب کو
 ظاہر کرنا۔
 انْكَشَفَ الشَّيْءُ: ظاہر کرنا۔ کھولنا۔ اور اسی
 سے ہے "الْإِنْكَشَافَاتُ" ان نئی تحقیقات کیلئے
 جو امور طبعیہ و منامیر میں ظاہر ہوں۔
 اسْتَكْشَفَ عَنِ الشَّيْءِ: ظاہر کرنے کو کہنا۔
 الكَشْفُ: مہ۔ عند العروصین:
 ساتویں محرک کا گردنا۔
 الكَشْفُ: سر کے اگلے حصہ کے بال گر جانا۔
 والكَشْفُ فِي الْخَيْلِ: ذم کے بالوں کی
 پیچیدگی۔
 الكَشْفَةُ: سر کے اگلے حصہ میں بال گرنے
 کی جگہ۔
 الكَاشِفُ: فاج کشفة۔
 الكَاشِفَةُ: مہ۔ کاشف کامونٹ۔ زسوائی ج
 کواشیف۔
 الكَشَافُ: ام مبادلہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 كَشَافُ الْعَمَمِ" وہ غموں کا زائل کرنے والا
 ہے۔
 الاكْشَفُ: جس کے سر کے اگلے حصہ کے
 بال گر گئے ہوں۔ گھوڑا جس کی ذم کے بالوں میں
 پیچیدگی ہو۔ وہ شخص جس کے پاس لڑائی میں نہ
 ڈھال ہونے خود ہو۔ لڑائی میں شکست خوردہ۔
 الكَشَفَاءُ: اکشف کامونٹ۔
 الكَشِيفُ: بمعنی مَكْشُوفٌ۔ کھلا ہوا۔
 ظاہر۔
 الكَشْكُ: جو کلابانی۔ آتش جو۔
 الكَشْكُ: عِنْدَ عَامِتَا: ایک قسم کا کھانا جو
 موئے ستو کو دودھ میں جھگو کر خمیر بنانے کے بعد

میں دانت نکالنا اور اسم الْكِشْرَةُ۔ السَّبْعُ
 عَنْ نَابِهِ: درندے کا مقابلے میں دانت دکھانا۔
 فَلَانًا لَهُ: پھینے جیسا بنانا۔
 كَشِيرٌ (س) كَشِيرًا: بھگانا۔
 كَشَّرَ عَنْ أَسْنَانِهِ: بمعنی كَشَّرَ تَشْرِيحًا مَبَالِدَ
 کے لیے ہے۔
 كَاشَرَهُ مُكَاشَرَةً: باہم ہنسا۔ باہم دانت
 نکالنا۔
 اكْشَرَلَهُ عَنْ أَنْبَابِهِ: دھکی رہنا۔
 تَكَشَّرَ: دانت نکالنا۔
 الكَشْرُ: مہ۔ سوکھی روٹی۔
 الكَشْرُ: اگور کا خوشہ جس کے اگور کھائے جا
 چکے ہوں۔
 الْمُكَاشِرُ: فاج الْبَحَارُ الْمُكَاشِرُ: قرہی
 پردی۔
 كَشَطٌ (ض) كَشَطًا وَاسْتَكْشَطَ الشَّيْءَ:
 ڈھکی ہوئی چیز کو کچھ کھولنا۔ كَشَطَ الزَّجْلُ عَنِ
 الْقَرْسِ وَ الْعِظَاءِ عَنِ الشَّيْءِ: جھول کر گھوڑے
 سے پاؤں کھینے کو کسی چیز سے آٹارنا۔ نِكَارًا
 الحَزَفُ: موقع سے ہٹا دینا۔ وَ كَشَطَ الْبَيْعُ:
 اُونٹ کی کھال آٹارنا وَ اسْتَكْشَطَ الْبَيْعُ: کھال
 آٹارنے کا وقت قریب ہونا۔
 تَكَشَطَ السَّحَابُ فِي السَّمَاءِ: آسمان میں
 بادل ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ پراگندہ ہونا۔
 انْكَشَطَ: آٹار جانا۔ نِكَارًا
 خُوفٌ زَائِلٌ هُوَ:
 الكَشَاطُ: قصائل۔
 الكِشَاطُ: انکشاف۔ اُترتی ہوئی کھال۔
 الكَشِطَةُ: کھال اُترتی ہوئی اُونٹوں کے
 مالکین۔
 كَشَعٌ (ف) كَشَعًا الْقَوْمُ عَنِ قَبِيلِ: قوم کا
 متحول سے متفرق و پراگندہ ہونا۔
 كَشِيعٌ (س) كَشِيعًا: بدول ہونا۔ زنج ہونا۔
 كَشَفٌ (ض) كَشَفًا وَ كَاشَفَةً الشَّيْءَ وَعَنِ
 الشَّيْءِ: ظاہر کرنا۔ کھولنا۔ کہا جاتا ہے "كَشَفَ
 اللَّهُ غَمَّةً" اللہ اس کے غم کو زائل کرے۔
 "وَ كَشَفَتُهُ الْكُؤِاشِيفُ" یعنی زسوا کر دیا۔
 كَشِيفٌ (س) كَشِيفًا: شکست کھانا۔

تاریکی یا روشنی کا زائل ہونا (۔ وَ كَشِيعٌ)
 الْغُؤُ: کڑی چھینا۔ جھال آٹارنا۔
 الْبَيْعُ: اُونٹ کے پہلو میں داغ لگانا۔ هُ:
 پہلو پر داغ دینا۔
 كَشِيعَ الزَّجْلُ: پہلو پر داغ دیا جانا۔ صفت
 مَكْشُوحٌ: كَشِيعَ الْقَوْمُ عَنِ الْمَاءِ: متفرق
 ہونا۔ پراگندہ ہونا۔
 كَشِيعٌ (س) كَشِيعًا: درد پہلو والا ہونا۔
 كَاشِيعٌ كِشَاحًا وَ مَكَاشِيعَةً فَلَانًا
 بِالْعَدَاوَةِ: دشمنی رکھنا۔
 انْكَشِيعَ الْقَوْمُ عَنِ الْمَاءِ: متفرق ہونا۔
 نِمْرًا۔
 تَكَشِيعَ الْحَارِيَةَ: جمع کرنا۔
 الكَشِيعُ: مہ۔ پہلو۔ ج كَشِيعُوحٌ: کہا جاتا
 ہے "ظَلَوِي كَشِيعَةً عَنِ فَلَانٍ أَوْ ظَلَوِي
 كَشِيعًا عَنَّهُ" یعنی اس نے پہلو تھی کی اور
 اعراض کیا۔ "وَ ظَلَوِي كَشِيعَهُ عَلَيَّ الْأُمْرُ"
 اس نے کام برداومت کی۔
 الكَشِيعُ: پہلو کی بیماری جس کا علاج داغ لگانا
 ہے اور بقول بعض ذات الجنب کو کہتے ہیں۔
 الكَاشِيعُ: فاج پوشیدہ دشمنی رکھنے والا۔ اور
 بقول بعض وہ شخص جو دشمنی کی بنا پر پہلو تھی
 کرے یا وہ جو تم سے دوری اختیار کرے اور
 اعراض کرے۔
 الكِشَاحُ: پہلو کا داغ۔
 الْكِشَاحَةُ: باطنی عداوت۔
 الْمِكْشِيعُ وَ الْمِكْشَاحُ: تلوار کی دھار۔
 الْمِكْشَاحُ: گھلاڑا۔
 كَشِيعُنَ كَشِيعَةً الزَّجْلُ: عورت کے حق
 میں بے غیرت کرنا۔
 الكَشِيعَانُ: ہوی کے حق میں بے غیرت۔
 كَشَفَ (ض) كَشَفًا الشَّيْءَ: دانعوں سے کاٹنا
 النَّاقَةَ: اُونٹ کو تین انگلیوں سے دوہنا۔
 اكْشَدَ: خالص کھن بنانا۔
 الكِشْدَةُ: کھن۔
 الْكَاشِدُ وَ الْكَشُودُ وَ الْكَشْدُ الْمِلُّ وَ عِمَالٌ
 کیلئے بہت محنت سے کانے والا۔ ج كَشْدُ۔
 كَشَّرَ (ض) كَشَّرًا: عَنِ أَسْنَانِهِ: ہنسی و غیرہ

پکایا جاتا ہے۔ الکیشک: گہوار محل (دخیل)
 کشکش کشکشہ: ہمانا۔ کشکشش
 الحیة: سانپ کا کمال سے آواز نکالنا۔
 الکشفکشہ: مہ صیر خطاب مؤنث کو شین
 سے بدل لینا۔ جیسے اکثر فمش و عیش
 اکثر فمشو علیک میں۔
 الکشفکؤل و الکشفکؤلة: بھکاریوں کا
 چیل (دخیل) ہباء الدین عالی کی ایک کتاب کا نام
 کقول ہے اس لیے کہ اس میں مختلف موضوع
 پر مباحث ہیں۔
 کشم (ن) کشما و کشم و اکشم۔
 الأنف: ناک جز سے لانا۔
 کشم (س) کشما۔ پیدائشی یا خاندانی عیب
 دار ہونا۔ صفت اکشم۔
 کشم (ض) کشما القیاء او الجوز: بکری یا
 گاڑ بہت حرص سے کھانا۔
 آنف کشم و اکشم۔ جز سے کئی ہوئی ناک۔
 الکشم و الاکشم۔ تیز دو۔
 کشمز۔ رونے کے لیے آمادہ ہونا۔
 آفہ: ناک توڑ ہونا۔
 الکشمیش۔ کشش واحد کشمشہ۔
 کشاہ یکشوہ کشوا۔ دانتوں سے کاٹ
 کمانا۔
 کشیہ: گوہ کے پیٹ کی چہلی۔ یا اس کی دم
 کی جز۔ کشی۔
 کش (ض) کشا القوم: اکٹھا ہونا۔
 کشیضا الماء بالناص: پانی پر لوگوں کی بہت
 بھیڑ ہونا۔ کشا و کشیضا الصوت:
 آواز باریک ہونا۔
 کش۔ ہمانا اور نکلت کمانا۔
 نکاش و انکش القوم: اکٹھا ہونا۔ بھیڑ
 کرنا۔
 الکشمیص۔ مہ شدت شفقت کی وجہ سے
 تپ و تاب۔ خوف۔ اضطراب۔ نڈی کی آواز۔
 موناپتہ تمد مرد۔ کرودہ۔
 الکشمیصہ۔ جماعت۔ ہرن کے پھسانے کا
 پھندا۔ کشانص۔
 کشکش۔ تیز چلنا۔

کشم (ض) کشوما۔ بہت پھیرنا۔ پیڑھا کمانا
 کشما دانتوں سے لانا۔
 الزجل: تخی سے بنانا۔
 کشی یکشی کشیا۔ رفعت کے بعد خیس
 ہونا۔
 کشکش۔ تیز چلنا۔
 کشل (ن) کشلا۔ ہمانا دور پھینکانا۔
 کشل (ن) کشلا الطعام فلانا: زیادہ بھرنے سے
 سانس نہ لینے دینا۔ الغیظ صدوزہ: سخت
 غضبناک ہونا۔ الخیل: رشتی باندھنا۔
 خصمہ: چاروں طرف سے گھیر دینا۔
 کشطا و کشطاة الامر فلانا: عکین کرنا۔
 جٹائے کرب کرنا۔ بوجھل کرنا۔ المسینل
 بالماء: پانی کی زیادتی سے ہواؤ کی جگہ کا ٹھک
 ہونا۔
 کشطہ و کشطاط و کشطاة: جگہ میں سخت اور
 جم کر مقابلہ کرنا۔
 نکاش القوم: میدان جنگ کو ٹھک کرنا۔ دشمنی
 میں حد سے گزرنا۔
 کشط من الطعام: سانس نہ لے سکنے کی حد
 تک بھر لینا۔ المسینل بالماء: پانی کی
 زیادتی سے ہواؤ کی جگہ کا ٹھک ہونا۔
 المسحل: لوگوں سے بھر جانا۔ کشطہ
 الغیظ: سینہ کا فتنہ سے بھر جانا۔
 کشطہ: بد ہنسی۔ زیادہ پیٹ بھر جانے کی
 تکلیف۔
 کشطاط۔ مہ۔ سھکن۔ تخی۔ غم جو دل کو بھر
 دے۔ عداوت۔
 کشط۔ مہ کما جاتا ہے "زجل کشط" سخت گیر
 مرد ()۔ و کشطیظ و المشکط
 و المشکطوط: وہ شخص جس کو امور گرا ہمار کر
 دیں اور وہ عاجز ہو جائے۔ بہت زیادہ غضبناک۔
 کشطیظ و المشکطوط: کھانے سے بھرا ہوا۔
 حکم سیر۔
 کشطیظ۔ بھیڑ۔ انبوہ۔ کما جاتا ہے "علی
 باب فلان کشطیظ" فلاں کے دروازہ پر بھیڑ
 ہے۔
 طعام مکشطہ۔ بد ہنسی والا کھانا۔

کشب (ن) کشطوا۔ بہت مونہ ہونا۔
 کشط (ن) کشطوا۔ القوم: کمان کے
 کنارے پر تانت لگانے کے لیے دندان بنانا
 الزئذہ: ہتھماں سے دندان بنانا۔
 کشط۔ کمان کے کناروں پر تانت کا حلقہ
 لگانے کی جگہ۔ گردہ کی چہلی ()۔ و کشطوة)
 گردہ کی جگہ جب کہ گردے نکال لیے جائیں۔
 الکشطلہ: ہلی کی بڑی کے درمیان کی جگہ۔
 کشط (ض) کشطما التاب: دروازہ بند کرنا
 التھو: نہر کو روکنا۔ القویۃ: جھک
 بھرا اور نہ باندھنا۔ التبعیۃ بالکطامہ:
 اونٹ کو تکمیل لگانا۔ الشی و علی
 الشی: روکنا کشطوما التبعیۃ: اونٹ کا جھگال
 کرنے سے باز رہنا۔ کما جاتا ہے "ما کشطم فلان
 علی حیوہ" یعنی فلاں کے پیٹ میں بات بچتی
 نہیں ()۔ کشطما و کشطوما غیظہ: ضد
 نکل جانا۔
 کشط کشطوما۔ خاموش رہنا۔
 کشط۔ سانس کی نالی۔ ج اکطام و کشطام
 کما جاتا ہے "أخذ یکشطہ" یعنی اس کو غم میں
 چلا کر دیا۔
 کشطام۔ بند کرنے کی چیز۔ کما جاتا ہے "أخذ
 یکشطام الامر" یعنی اس نے بھروسہ کے لائق چیز
 کو اختیار کیا۔
 کشطامہ۔ داوی کا دہانہ۔ اونٹ کی تکمیل۔
 ترازو کی رسیوں کا حلقہ۔ کما جاتا ہے "عقد
 الخیوط فی کطامتی المیزان" یعنی اس نے
 ترازو کی ڈنڈی کے دونوں حلقوں میں دھاگے
 باندھ دیئے کشطامہ: زمین کے اندر پانی کی
 نالی۔ کشطامۃ التاب: دروازہ بند کرنے کی چیز
 و کشطیمة: دو قریب قریب کنوؤں کے
 درمیان نالی۔
 کشطیمة: توشہ دان۔ ج کشطام۔
 کشطام۔ قال خاموش۔ ج کشطام۔ تبعیۃ
 کشطامہ یا ساونٹ۔
 ایل کشطوم۔ اونٹ جو جھگالی نہ کرے۔
 کشطیوم و المشکطوم۔ مصیبت زدہ۔
 کشطوم: دروازہ بند کرنے کی چیز۔

كَعْبًا يَكْفَلُ كَفْلًا لَحْمَةً: گوشت سخت ہوتا۔

تَكْفَلِي لَحْمَةً سَمَنًا: موٹائی کی وجہ سے گوشت کا بلند ہونا۔

أَرْضٌ كَأَطْبَةِ: خشک زمین۔

كَعْبٌ (ان ض) كَعْبًا وَكُفُوًا وَكِعَاعَةً وَكَيْفُوَةً: کمزور ہونا۔ بزدل ہونا۔

أَكْعٌ فَلَانًا: خوف دلانا۔ بزدل بنانا۔

فِي كَلَامِهِ: کلام میں رکنا۔

فَلَانًا: ارادہ سے باز رکھنا۔

الْكَعْبُ وَالْكَاعُ: کمزور۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ كَعْبٌ الْوَجْهِ" ظاں سبک رخسار ہے۔

كَعَبَتِ (ان ض) كُفُوًا وَكُفُوَةً وَكِعَابَةً الْجَوَارِيَّةُ: لڑکی کا اُبھری ہوئی پستان والی ہونا۔

صفت کعباب و کعاب۔

كَعَبُ (ف) كُفُوًا الْقَدِي: پستان اُبھرتا۔

(— كَعَبًا) الْإِنَاءُ: برتن بھرتا۔ فَلَانًا: خشک چیز۔

كَعَبُ الْإِنَاءِ: برتن بھرتا۔ الشَّيْءُ: جو کچھ ہوتا۔

كَعَبَتِ الْجَوَارِيَّةُ: لڑکی کا اُبھری ہوئی پستان والی ہونا۔

أَكْعَبُ: دوڑنا۔

الْكَعْبُ: دو پوروں کے درمیان کی گرہ۔ نیزہ کی گرہ۔ ہر بلند و مرتفع چیز۔ بزرگی و شرف ج کُفُوب۔

كَمَا جَاءَ "عَلَى اللَّهِ كَعَبُهُمْ" اللہ ان کی شان کو بلند کرے۔ "وَذَهَبَ كَعَبُهُمْ" ان کی عزت تباہ ہو گئی۔ "زَجَلُ عَالِي الْكَعْبِ" مرو بڑی بزرگی والا۔

الْكَعْبُ: پانسہ۔ گچی کا کھڑا۔ برتن کا باقی ماندہ دودھ ج كَعْبٌ وَكِعَابٌ وَالْكَعْبُ فِي عِلْمِ الْهِنْدِيَّةِ: مریخ جسم۔

الْكَعْبُ: بڑیوں کا جوڑ۔ قدم کے اوپر اُبھری ہوئی ہڈی۔ نئے۔ ج كِعَابٌ وَكُفُوبٌ وَكِعَابٌ۔

الْكِعَابُ: ترو کے سرے۔ واحد كَعْبٌ وَكَعَبَةٌ۔

جَارِيَةٌ كَعَابٌ وَكَعَبٌ: اُبھری ہوئی پستان والی لڑکی۔ کہا جاتا ہے "وَجْهٌ مُنْكَعَبٌ"۔

الْكَاعِبُ: مِنَ الْجَوَارِي وَالْقَدِي: اُبھری ہوئی پستان والی لڑکی یا اُبھری ہوئی پستان ج كَوَاعِبُ۔

الْمُكْعَبُ: مریخ جسم۔ وہ جسم جس کی چھ سطحیں ہوں اور لمبائی چوڑائی موٹائی سب برابر ہو۔

الْحِجَابُ مَكْعَبٌ الْعَدَدِ: چونے کا حاصل ضرب۔ جیسے آٹھ دو کا کعب ہے۔ نَدِيٌّ مُكْعَبٌ: اُبھری ہوئی پستان (یہ نادر ہے)۔

مَكْعَبَةٌ: کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی کھجور کے لیے زنبیل۔

كَعْبِيَةٌ كَعْبِيَةٌ بِالسَّيْفِ: تلوار سے کاٹا۔ نکلے کرنا۔

الْكَعْبِيَّةُ مِمَّا — مِنَ النِّسَاءِ: گچی آکڑ عورت۔

الْكَعْبُورُ مِنَ الْعَسَلِ: شد کے چمچے میں جو جمع ہو۔

الْكَعْبِيَّةُ: سخت گرہ دار ہڈی۔ بند دست۔ گوشت کا کھڑا۔ ہر جمع شدہ چیز۔ سر کی جڑ۔ موٹا سر۔ گیبوں کا کوڑا کرکٹ جو صاف کرتے وقت پیچیک دیا جائے۔ پانسٹانہ جو اوٹ کی ذم پر خشک ہو جائے۔

كَعْبِيَّةٌ الْكَيْفِ: موڑھے کا گول حصہ۔ كَعْبِيَّةٌ الْوَالِيفِ: ہڈی کے نچلے حصہ کے ٹکے کی جگہ۔ ج كَعَابُو۔ الْكَعَابُو: ہڈیوں کے سرے۔

الْكَعْبِيَّةُ: گرہ۔ جمع شدہ۔ غلہ میں سے جو پیچیک دیا جائے۔ ج كَعَابِيْنُ۔

كَعْبِيَشٌ كَعْبِيَشَةٌ كِي چیز کو لینا اور باندھنا۔

كُودِنِي كَعْبِيَشَةٌ كِي چیز کو لینا اور باندھنا۔

كُودِنِي كَعْبِيَشَةٌ كِي چیز کو لینا اور باندھنا۔

كُودِنِي كَعْبِيَشَةٌ كِي چیز کو لینا اور باندھنا۔

كُودِنِي كَعْبِيَشَةٌ كِي چیز کو لینا اور باندھنا۔

كُودِنِي كَعْبِيَشَةٌ كِي چیز کو لینا اور باندھنا۔

كُودِنِي كَعْبِيَشَةٌ كِي چیز کو لینا اور باندھنا۔

كُودِنِي كَعْبِيَشَةٌ كِي چیز کو لینا اور باندھنا۔

كُودِنِي كَعْبِيَشَةٌ كِي چیز کو لینا اور باندھنا۔

الْكَعْفُورُ: چڑیا کی مانند ایک پرندہ۔

تَكْفَعِيَتُ الْعُرَاةُ: پورے کا گول ہونا۔ الْكَعْفُ: گول۔ الْكَعْفَةُ: شیشی کا سر بند۔ الْكَعْفَبُ: فرومایہ۔ بے مروت مرد۔ الْكَعْفَبَةُ: پانی کا بلبلہ۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

كَعْفُ (س) كَعْفُ الصَّبِيِّ: پر شکم ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت كَعْفُ: كَعْفُ النِّطْلِ: بیٹ بھرتا۔ موٹا ہونا۔ (— وَ كَعْفُ وَ كَعْفُ النِّبْيِزِ: اوٹ کے کوہان میں گرہ دار چربی ہونا۔ الْكَعْفُ: کوہان۔ الْكَعْفُورَةُ: غدود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔ الْكَعْفُورَةُ: بڑی تاک والا۔ الْكَيْفُورُ: شیر کا موٹا پتہ۔ الْمَكْفُورُ: تیز دوڑنے والا۔ كَعْفُ (ف) كَعْفُ: اُھلیوں سے چمٹنا۔ الْكَفْسُ: ہاتھ اور پاؤں کی اُھلیوں کی ہڈی۔

ساتھ گتھا ہوا ہوتا۔
 الكفّل: بخيل المدار۔ یا سخّانہ کو بر (و
 الكفّل) کلا پہنتہ قد مرد۔
 المتكفل: غفّة سے پھولا ہوا۔ چوتروں کو
 حرکت دینے والا۔
 كَفَمَ (ف) كَفَعًا الوعاة: برتن کا منہ
 باندھنا۔ البعير: اونٹ کو تھوٹھی لگانا۔
 الحووف فلانا: بنانا۔ المزاة: عورت کا
 پوسہ لینا۔
 الكيف: تھیاریا کا گیس۔ نیام۔ ج کيفام۔
 الكيفام ج كُفَمٍ والكيفامة: تھوٹھی جس
 سے اونٹ کے منہ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ کھلا اور
 کلا نہ سکے۔
 كُفُومُ الظرفي: راستہ کے ہانے۔
 بغير مكفوم: تھوٹھی چڑھایا ہوا اونٹ۔
 أَكْفَنُ الزجل: بست ہونا۔ نشاط میں کمی ہونا۔
 الكفّاب: پستہ شیر۔
 زجل كُفّاب: سر میں گرہ رکھنے والا مرد۔
 كُفّاب: الزاس: سر کی گریں۔
 الكُفّاب: شیر۔
 تَش كُفّاب: القزین: بچیدہ سینک والا کما۔
 تَكْفَش الظائز: پرندہ کا جال میں پھنسا۔
 فلان في الشئ: مشتعل ہونا۔
 كُفّاب كُفّاب كُفّاب: بزدل ہونا۔
 الكاعبي: فاء۔ گھٹ خورہ۔
 الأكفاء: بزدل لوگ۔
 الكاعبدو الكاعده: کانڈ۔
 الكاعدي: کانڈ بیچنے والا۔
 كَفَّ (ن) كَفًّا وكَفّارة: التوب: نکر کرنے
 کے بعد دوبارہ سینا (كفّا) الإنابة: برتن کو
 بست بھرنا۔ الشئ: جمع کرنا۔ رجلة: پیر
 میں چھتھرا لینا۔ القبيلة: قبیلہ کے ایک
 گوشہ کو اختیار کرنا۔ ماء و جنبہ: آبرو بچانا
 اور سوال کرنے سے رکتا۔ عن الأمر: باز
 رہنا۔ ع الأمر: باز رکھنا (كفّوا)
 التاقف: بوڑھی ہونے کی وجہ سے چھوٹے دانت
 والی ہونا۔
 كَفّ وكُفّ: بصره: اندھا ہونا۔

تَكْفَفُ الناس: لوگوں سے مانگنے کی لیے ہاتھ
 پھیلاتا۔ الزجل: ہاتھ میں لیتا یا طعی بھر کھانا
 مانگنا۔ یا بھوک روکنے کے لائق مانگنا عن الأمر:
 چھوڑنا۔ ذمعة: آنسو کا رکتا۔
 تكاف عن الأمر: باز رہنا۔ القوم: ایک
 دوسرے کو روکنا۔
 إنكف: باز رہنا۔ عن المكان: چھوڑنا۔
 استكف الشئ: ہاتھ میں لیتا۔ الناس:
 مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا۔ ع عن الشئ: روکنے
 کی لیے کتا۔ الناس خزلة: دیکھنے کے لیے
 احاطہ کرنا۔ استكفت الحجة: کنڈی مارنا۔
 الناطق: دعوہ سے بچنے والے کی طرح بھوٹوں پر
 ہاتھ رکھنا۔ عنة: دیکھنے کے لیے آنکھ پر ہاتھ کا
 سایہ کرنا۔ استكفت عنة: ہاتھ کے نیچے سے
 دیکھنا۔ فلان بالصدقة: صدقہ مانگنے کی لیے
 ہاتھ پھیلاتا۔ به الناس: احاطہ کرنا۔
 الشئ: بال بکرت ہونا۔ الشئ: گول ہونا۔
 الكف: مہ۔ ہاتھ یا تھیلی مع الکیوں کے
 (مؤنث) ج أكف وكفوف وكف. كف السبع
 وكف الكلب وكف الذئب وكف مزيم وكف
 كف اذم وكف الأسد وكف الصبيغ وكف
 القريد وكف الأجدم وكف الجذماء وكف
 عائشة: گھاس کی تسمیں۔ الكف: نعمت۔
 عند الغزوينين: ساتویں حرف ساکن کا ساتھ
 کرنا جیسے فاعلان کانون۔
 الكفة کف کا اسم مرہ۔ كفة الميزان: ترازو کا
 پلہا۔ کہا جاتا ہے "زأينه كفة كفة" جی بر فخر و
 كفة كفة وكفة عن كفة یعنی میں نے اس کو رو
 در رو دیکھا۔
 الكفة: ہر گول چیز۔ گڑھا جس میں پانی جمع ہو
 — من الميزان: ترازو کا پلہا۔ من الدف:
 دھول کا اٹھانچہ۔ كفة الصائد: شکاری کا جال۔ ج
 كفف وكفاف: الكفة الجوزية والكفة
 الشحالية: دو ستاروں کے نام۔ اور کہا جاتا ہے
 "الذهب بالذهب والكفة بالكفة" یعنی برابر
 سر برابر چٹھہ فی كفة اللیل: میں رات کی ابتدا
 میں اس کے پاس آیا۔
 الكفة: چیز کا کنارہ۔ حاشية: گوٹ۔ الكفة من

الشجر: درختوں کی انتہا۔ من الناس:
 لوگوں کی جماعت۔ نزدیک جگہ والے۔ من
 الغنم: بادل کا کنارہ۔ من اللیل: دن رات
 لٹنے کی جگہ یا مشرق میں یا مغرب میں۔ من
 الذرع: زرہ کا دامن۔ من الزمل: رست کا
 ٹیلہ جو لمبا اور گول ہو۔ من التوب: کپڑے
 کے اوپر کی دھاری جس میں چھوڑنا ہو۔ من
 اللثة: مسوڑے کا لٹکا ہوا حصہ۔ كفة
 القومین: دامن کے ارد گرد کی گوٹ۔ ج
 كفف وكفاف۔
 الكفف: سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا۔ من
 الرزق: گزارہ کے لائق روزی۔ لی
 التوشم: گوندے کے خلیے۔
 الكفف في الورشم: گوندے کے خلیے۔
 گڑھے جس میں چشمے ہوں۔
 الكفاف من الرزق: گزارہ کے لائق اور
 لوگوں سے مستحق کرنے والی روزی۔ کہا جاتا ہے
 "فؤنه كفاف حاجیه" یعنی اس کا گزارہ بغیر کی
 زیادتی کے اس کی حاجت کے مطابق ہے "و
 فلان لحنه كفاف لا دينه" یعنی فلاں کے
 بدن کے گوشت سے اس کا چھرا اٹھرا ہوا ہے۔
 كفاف الشئ: چیز کے مانند۔ کہا جاتا ہے
 "وعنی كفاف" یعنی تو مجھے چھوڑ دے میں تجھ
 کو چھوڑ دوں گا "و طاز البزق في كفاف
 السحاب" یعنی بادل کے کناروں میں بجلی
 کوندی "و چٹھہ فی كفاف اللیل" میں اس
 کے پاس رات کے ابتدائی حصہ میں آیا۔
 الكفاف: من الشئ: گھبرا۔ من
 التوب: کپڑے کی گوٹ۔ كفاف السيف:
 تلوار کی دھار كفاف السحاب: بادل کا کنارہ۔
 بادل کا نچلا حصہ۔ ہر وہ جو کسی چیز کے لٹنے کی جگہ
 ہوتی ہے۔ وہ کفاف ہے مثلاً كفاف الأذن۔ ج
 اكفة۔
 الكاف: فاء ج كفعة۔ و نافة كفاف: بوڑھی
 ہونے کی وجہ سے گھسے ہوئے دانت والی اونٹنی۔
 زجل كفاف: اپنے نفس کو روکنے والا مرد۔
 الكافة: کاف کاموٹ۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے
 "جاء الناس كافة" یعنی سب آئے۔

اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کی اضافت نہیں ہوتی بلکہ بیش حالت کی بنا پر منسوب رہتا ہے) الكفاة: بوڑھی اونٹنی۔
الكفوف من التوق: بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھمے ہوئے دانت والی اونٹنی۔
الشكافة: ایک دوسرے کو روکنے والا۔
المكفوف ج مكافيف والكيفيف:

اندرھا۔

المستكيف: گول۔

المستكفات: جھٹھے۔ انٹھے اونٹ۔

كفا (ف) كفاة پھرنا۔ گھست کھانا — عن القصد: سمانہ روی سے تجاؤز کرنا۔

الزجل: کسی کو دھکارنا (— وكفا وكفعا) الإناة برتن کو الٹ دینا۔ اونڈھا کرنا۔

كافا الزجل على ما كان منه: بدلا دینا —

فلانا: انتظار کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ نظیر ہونا۔ برابری

کرنا۔ مدالعت کرنا۔ بین القوسین بڑھوجہ: ایک کے بعد دوسرے کو نیزہ مارنا۔

اكفا: جھکانا — الإناة: برتن کو الٹ دینا۔ جھکا

دینا۔ اكفات الإبل: اونٹ کا بست بچے دینا۔

اكفا البيت: گھر پر پردہ لگانا — الشاخر: بیت

کے آخر کو روی کے بدلنے سے یا کسی اور طریقہ

سے خراب کر دینا۔

تكفافي وشيبيہ: لڑکھانا۔

اكفأ الإناة: برتن کو جھکانا — پلٹ دینا۔

الإبل: اونٹوں کو لوٹ ڈال کر لے بھاننا۔

تكافا القوم: ایک دوسرے کے برابر ہونا۔

إنكفا القوم: متفرق ہونا، واپس ہونا۔ گھست

کھانا — إلى كذا: جھکانا — اللون: خنیر ہونا

رنگ بدلنا۔

استكفا فلانا ابنة: ایک سال کی اونٹوں کی

پیدائش کسی سے مانگنا۔ کہا جاتا ہے "استكفأته

ابنة فاكفأنيها" یعنی میں نے اس سے اس کے

اونٹ کی ایک سال کی پیدائش کو مانگا تو اس نے

مجھے دودھ، اون، بچے سب دیدے

"استكفأ فلانا": برتن کی چیز کو اپنے برتن

میں اچھے کھانے کو میں نے کھا۔
الكفاة والكفاة: برابری۔ مساوات۔

الكفء: مصدر كفا. كما جاتا ہے "أَلْحَمْدُ لِلَّهِ
كِفَاءَ الْوَأَجِبِ" یعنی حمد واجب ہے اس کے
برابر اللہ کے لیے حمد ثابت ہے۔ "وَهَذَا كِفَاءُهُ"
یہ اس کے مثل ہے "وَلَا كِفَاءَ لَهُ" اس کی کوئی
نظیر نہیں۔ كِفَاءَ الْبَيْتِ: خیمہ کے اوپر سے نیچے
تک کا پردہ جو آخر میں لگایا جاتا ہے۔ ج كِفَيْتُهُ۔

الكف والكف والكف مثل ونظير ج أكفاء
وكفء۔

الكفوف والكفوء والكيفي والكيفية۔
مماثل۔

الكفاة والكفاة من الملل: درخت خرابی ایک

سال کی پیداوار — فی الإبل: ایک سال کی

پیدائش یا ایک سال یا اس سے زائد کے نانہ کے

بعد کی سالانہ پیدائش — فی الأرض: سال بھر

کی کھیتی۔ تم کہتے ہو — "منحنته كفاة غنمي"

جبکہ تم ایک سال کے لیے دودھ صوف بچے سب

دے دو اور اختتام سال پر بکریوں کو وہ تمہیں واپس

کر دے۔

الكيفي: مماثل۔ بطن وادی۔ کہا جاتا ہے "هو

كفي اللون" یعنی اس کا رنگ بدلا ہوا ہے۔

كيف الوادي: اندرون وادی۔

الإكفاء: مصدر أكفا — عند الشعراء:

حرف روی کو بدل بدل کر لانا۔ مثلاً کہیں ہم کہیں

دال کہیں نون۔ اور یہ ممنوع ہے۔ کہا جاتا ہے

"زأنته مكففي اللون ومكفأ اللون": میں نے

اس کو خنیر لالوں پایا۔

كفتة (ض) كفتا۔ پھیر دینا — ه الله: وفات

دینا۔ کہا جاتا ہے "اللهم أكفنه اليك" اے اللہ

اس کو وفات دے۔ كفت الشئ: الٹ جانا —

وكفت الشئ: الشئ إلى نفسه: اپنے ساتھ ملانا —

الشئ: قبض کرنا — فلان ذيلة: وامن سبب۔

كفت (ض) كفتا وكفتا وكفتا وكفتا

تكفأ الطائر وغیره: پرندہ کا تیز اڑنا یا دوڑنا

اور سبب۔ تكفأ في مسيرته: دوڑنا۔ تكفأ

القبوب: کپڑے کا سبب۔

كافت مكافئة وكفأتا الزجل: دوڑنے میں

سبقت کرنا — الزجل: اچانک مرنا۔

إنكفت: پھرنا۔ سكرنا — القوس: گھوڑے کا

لاغر ہونا۔

إنكفت القمل: سب لے لینا۔

الكفت: مم۔ موت۔ الٹ پلٹ ہونا۔ کہا جاتا

ہے "خنز كفت" بے سامن کی روٹی۔ "زجل"

كفت" دہلا پتلا ہلکا پھلکا مروا (— والكفت)

چھوٹی ہانڈی۔

الكفت والكفتة من الخويل: بست اچھلنے

کوڑے والا گھوڑا جو سوار نہ ہونے دے۔

الكفات: مم۔ چیز جمع کرنے کی جگہ۔ جمع کی

ہوئی چیز۔

الكفيت: مم۔ توشہ دان — من الرجال:

ہلکا پھلکا تیز مرد۔ وہ شخص جو تم سے آگے بڑھ

جائے غڈو کفیت: تیز دوڑ۔ کہا جاتا ہے مات

كفأنا ومكافئة: اچانک مر گیا۔

الكفات: اسم مبالغہ۔ شیر۔

المكفيت: دو زرہوں کا پسننے والا جن کے

درمیان میں کپڑا ہو۔

كفح (ف) كفح العذو: دشمن کے روڈ

رو ہونا۔ آنے سامنے ہونا — بالقصا: لاٹھی

سے مارنا — ليجام الذابة: چوپایہ کو گھمرانے

کے لیے لگام کھینچنا — الشئ: سرپوش اتارنا۔

المزاة: عورت کا اچانک بوسہ لینا۔

كفح (س) كفحأ عنه: شرمندہ ہونا۔ بزدل

ہونا۔

كفح القوم أعذاءهم: بغیر حال وغیرہ کے

دشمن کے مقابلہ پر آنا۔ کہا جاتا ہے "هو كفايح

الأمور" وہ امور کو خود انجام دیتا ہے۔ كفاح

عنه: مدالعت کرنا۔ كفاح المرأة: عورت کا

اچانک بوسہ لینا۔

أكفح الذابة: چوپایہ کو گھمرانے کے لیے لگام

کھینچنا — فلانا عن نفسه: ہٹانا، دفع کرنا۔

تكفاح القوم: آنے سامنے مقابلہ کرنا۔

تكفاحت الأمواج: موجوں کا کھرانا —

الكنباش: میزعوں کا ایک دوسرے کو سینگ

مارنا۔

الكفاح: مم۔ کہا جاتا ہے "لقينته كفأحا" میں

نے اس سے آنے سامنے ملاقات کی۔

الكفيع: نظیر۔ کفو۔ شوہر۔ اچانک آنے والا

سمان۔

الکفح۔ کالا۔

الکفحة۔ چھوٹی سی جماعت۔

كفحة (ف) كفحاً۔ طمانچہ مارنا — ۵

بالقضاء بلا شئ سے مارنا۔

الکفحة۔ جمع شدہ سفید کھن۔

زجل مکفوح و عمود مکفوح۔ مضبوط۔

كفزان (ن) كفزوا و كفزوا الشئ: چھپایا۔ کما جاتا

ہے "كفز ذرعه بقره" اس نے اپنی زرہ کو

اپنے کپڑے سے چھپایا — اللیل الشئ و علی

الشئ: و ما لنا — الجھل علی علم فلان:

علم پر جمل کا غالب آنا — كفزوا و كفزوا

كفوزا و كفزانا ایمان کی ضد — بالخالی

نقی کرنا — كفزوا و كفزوا انما انعم اللہ و

ببیم اللہ: ناشکری کرنا — بکذا: بجزارہ ہونا۔

كفز الشئ: چھپانا — الزجل: کفر پر

برا لگینے کرنا۔ کفر کی طرف نسبت کرنا۔ کافر کرنا۔

كفز لہ: تعظیماً کسی کے سامنے سینہ پر ہاتھ رکھنا

اور سر جھکانا — اللہ لہ الذنب: معاف کرنا۔

گناہ مٹانا — عن یمینہ و الیمہ: کفارہ ادا کرنا۔

كفز: للملک: تاج پہنایا جاتا کہ جس کے

دیکھنے سے تعظیم کرنا لازم ہو۔

كافزوا مکافرة فلانا حقہ: انکار کرنا۔

كفز: طاعت اور ایمان کے بعد گناہ اور کفر

اختیار کرنا — الزجل: کافر کرنا۔ کفر کی طرف

منسوب کرنا۔ کافر بنانا۔ کفر کرنے پر مجبور کرنا۔

اكفز الزجل: دیہات میں رہنا۔

اكفز: دیہات میں رہنا۔

الكفز: مہ دور کی زمین۔ قبر۔ چھوٹی لائچی

مٹی۔ الكفز: دیہات۔ ج کفوزا — و الجفر

و الكفزة رات کی تاریکی۔

الكفز و الكفزان: ضد ایمان۔ الكفزان:

ناشکری۔ الكفز: فارسیوں کا اپنے بادشاہ کی

تعظیم کرنا۔

الكفز و الكفزی و الكفزی و الكفزی

مجبور کے ٹکڑے کا غلاف۔ الكفز: پہاڑ کی

گھاٹیاں واحد کفزة۔

الكفز من الجبال: بڑا پہاڑ۔

الكافر۔ نا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے

والا۔ ج کافرون و کفوة و کفار و کفار (کنار

اس کافر کی جمع میں اکثر استعمال ہوتا ہے جو ضد

مومن ہے اور کفزة کا استعمال اکثر اس کافر کی

جمع میں ہے جو ہمجنس ناشر گزار ہے۔ الكافر:

تاریک رات۔ سمندر۔ بڑی وادی۔ کالا بادل۔

تاریکی۔ مجبور کے ٹکڑے کا غلاف۔ بڑا دریا۔ زرہ۔ وہ

فحص جس نے زرہ کو اپنے کپڑوں سے چھپا رکھا

ہو۔ دور کی زمین۔ ہموار زمین۔ نباتات۔ کاشتکار۔

ہتھیار بند۔ چھپا ہوا متیم الكافر من الخبی: کالا

گھوڑا۔

الكافرة: کافر کا مؤنث۔ ج کافرات و کوافر۔

الكوافر: شراب کے ٹکڑے۔

الكفوز: کافر۔ ج کفوز (اس کی جمع سالم نہیں

آتی)

الكافوز: ایک خوشبودار گھاس۔ کانور۔ مجبور کا

ٹکڑا۔ مجبور کے ٹکڑے کا غلاف۔ خوشہ۔ انگور

ٹکڑے کی جگہ۔ ج کوافر و کوافر۔

الكفار: اسم مبالغہ۔ زجل کفار: اللہ کی

نعمتوں کا انکار کرنے والا۔

الكفارة: کفار کا مؤنث۔ گناہ کا کفارہ۔ ضد تیا

روزہ جو کفارہ میں ادا کیا جائے۔

المكفر و المنكفر: ہتھیار بند۔ ہتھیار میں

چھپا ہوا۔

المكفر: غف۔ وہ احسان کرنے والا جس کی

ناشکری کی گئی ہو۔ لوہے میں بندھا ہوا۔ طائر

مکفر: بیرون میں چھپا ہوا پردہ۔

كفص (س) كفص الصبی: نیڑھے پاؤں والا

ہونا۔ صفت اكفص۔ مؤنث كفصاء۔ ج

كفص۔

كفصت و انكفصت رجله: پاؤں کا ٹیڑھا

ہونا۔ انكفصت الرجل: مرد کا دو ہرا ہونا۔

الكفص: بچے کے بدن پر باندھنے کا کپڑا۔ بدن

سے ملے ہوئے کپڑے سے اور کپڑا۔ كفكفة:

عن كذا: پھیرنا۔ باز رکھنا۔ منع کرنا۔ كفكف

الذمغ: آٹو بار بار پونجھنا — الزجل: قرض

دار سے نری برتایا قرض دار سے تکلیف پہنچانے

والے کو دور کرنا۔

تکفكف۔ عتہ۔ بازرہنا۔ پھر جانا۔

كفل (ن) كفلوا و كفالة فلاناً: نان و نفقہ کا

ذمہ دار ہونا — فنی صیابہ: لگاتار روزے

رکھنا — الشئ الیہ: ملنا۔

كفل (ن س) و كفل (س) و كفل (ک)

كفلاً و كفلوا الرجل بالرجل و المال و

بالمال: ضامن ہونا۔ کما جاتا ہے "كفل عتہ

بالمال یقرنہ" اس نے قرض خواہ کی لیے مال

کی ذمہ داری کی۔

كفله: نان و نفقہ وغیرہ کا ذمہ دار ہونا۔

كفله و اكفله ایتاً: ضامن بنانا۔ كفل

القاصی الخضم: ضامن لینا۔ اكفل زبذ

عمرؤا: مال کا ضامن ہونا۔

كافله مكافلة: معاہدہ کرنا۔

تکفل لہ بكذا: ضامن ہونا۔ کما جاتا ہے

"تکفل بالمال" یعنی اپنے ذمہ کر لیا — و

اكفل البعیز: اونٹ کے کوہان پر گول ذین

رکھ کر سوار کرنا۔ اكفل بفلان: اپنے بیچے

سوار کرنا — بالشئ: بیچے کرنا۔ کما جاتا ہے

اكفلوا بالخبیل: یعنی پہاڑ سے گزر گئے اور

اس کو اپنے بیچے چھوڑ دیا۔

تکافل القوم: بعض بعض کا ضامن ہونا۔

الكفل: دو چنڈ تواب یا گناہ بیچے سوار ہونے

والا۔ حصہ۔ نظیر۔ ضمانت۔ تیل کی گردن پر تل کی

لکڑی کے نیچے کا چھتڑا۔ اون جو پہلے اون کے

گرنے کے بعد نکل دے فحص جو گھوڑے پر بیٹھ

نہ سکے، وہ فحص جو میدان جنگ میں آخر میں

رہے اور بھاگنے کے لیے مستعد رہے، وہ فحص

جو اپنے جان و مال کو دوسرے کے ذمہ ڈال دے،

چھتڑے وغیرہ سے ایک گول سی چیز بناتے ہیں

اور اس کو اونٹ کے کوہان پر رکھتے ہیں تاکہ چھتڑے

میں آسانی رہے، وہ چیز جو سوار کی اس کے بیچے

سے حفاظت کرے۔ ج اكفلال۔

الكفل من الذابئ: چوپایہ کا چتر یا سرین کا

پھل حصہ۔ ج اكفلال۔

الكافل: فا۔ ضامن۔ تیم کا حوتی۔ پے در پے

روزے رکھنے والا۔ کما جاتا ہے "ہات فلان

کافلاً" قلاں نے اس حالت میں رات گزارا

کہ نہ تو دن کو کھانا کھایا اور نہ رات میں۔ ج۔
کُفْلٌ۔

الکَفَالَةُ: ضمانت (اسم ہے کَفَلَة سے)۔ ج۔
کَفَالَاتٌ۔

الکَفِيْلُ: ضامن۔ ہم مثل۔ کہا جاتا ہے زَجُلٌ
كَفِيْلٌ وَاِمْرَاَةٌ كَفِيْلَةٌ وَقَوْمٌ كَفِيْلٌ۔ ج۔
كَفْلَاءٌ۔

الکَفْوَلَةُ: اسم ہے کفل کا۔ اور کفل اس شخص
کو کہتے ہیں جو گھوڑے پر نہ بیٹھ سکے۔

كُفْنٌ (ض) كُفْنَا الْجَمْرَ بِالزَّمَادِ: چنگاری کو
راکھ میں دبا دینا۔ الضَّوْفُ: اون کا تاج۔

الغَبِيْرَةُ فِي الْمِلَةِ: بھوجھل میں روٹی چھپانا۔
وَكُفْنٌ مَمِيْتٌ: کفن دینا۔

تَكْفَنُ بِكَذَا: چھپانا۔
الکَفْنُ: مہ۔ اور کہا جاتا ہے "طعام کُفْنٌ"
بے نمک کھانا۔

الکَفْنُ: کفن۔ کن۔ ج۔ اَكْفَانٌ۔
الکَفْنَةُ: ایک درخت کا نام ہے۔ اور یقول
بعض ایک گھاس ہے جو زمین پر بہت پھیلی ہوئی
ہوتی ہے۔

الکَفْنَةُ: عمرہ زمین جو ہر چیز کو اگائے۔ کہا جاتا
ہے "قَوْمٌ مُكْفِنُونَ" یعنی ایسے لوگ جن کے پاس
نمک نہ ہو۔

الکَفْنَةُ: فوج کا سردار۔
اَكْفَهُوْا اِكْفِهْوَا الْمُنْبُلُ: رات کا سخت
تاریک ہونا۔ السَّخَابُ: بادل گھٹا ٹاپ ہونا

الزَّجْلُ: تیوری چڑھانا۔ التَّجْمُ: ستارہ
کا سخت تاریکی میں چمکانا۔
الشُّكْفَهْوُ: فَا۔ ہر ہتہ بتدی چیز۔ سخت اور بلند پہاڑ۔
کھ گوشت۔ سخت اور بے حیا چہرہ۔ کہا جاتا ہے
"فَلَانٌ شُكْفَهْوٌ لَوْنٌ" یعنی فلاں کا رنگ تیرگی
کی طرف مائل ہے "وَفَلَانٌ مُكْفَهْوٌ" یعنی
فلاں متعجب و ترش رو ہے۔ خوشی کے آثار اس
کے اندر نہیں۔

الکُفُو وَالکُفَى: مثل اور نظیر۔
کُفَى بِکُفَى كِفَايَةَ الشَّيْءِ: کافی ہونا۔ صفت
کافی۔ کُفَى الشَّيْءِ فَلَانًا: قہمت کرنا اور
دوسرے سے مستثنیٰ ہونا۔ و کُفَى فَلَانًا

مُوْذِقْتَهُ کارگزاری کر دینا۔ اور کارگزاری سے
مستثنیٰ کر دینا۔ کہا جاتا ہے "کُفَيْتُهُ شَرَّ عَدُوِّهِ"
یعنی اس کو دشمن کے شر سے بچا دیا۔ اور کُفَى کے
فاعل پر ہاکی زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے "کُفَى بِاللّٰهِ
شَيْئًا"۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شہادت غیر سے مستثنیٰ
کردیتی ہے۔ لفظ اللہ محلاً مرفوع ہے اور شہید امتیاز
ہے۔

کافی كِفَاءً وَكِفَايَةً الزَّجْلُ: بدلہ دینا۔ کافی
ہونا۔

تَكْفَى التَّبَاتُ: نباتات کا طویل ہونا۔
اِكْفَى بِكَذَا: قہمت کرنا۔ مستثنیٰ کرنا۔
اِسْتَكْفَى الزَّجْلُ الشَّيْءَ: کافی چیز مانگنا۔ تم کہتے
ہو "اِسْتَكْفَيْتُهُ الْاَمْرَ فَكَفَانِيهِ" میں نے اس
سے کافی چیز کی درخواست کی اس نے مجھے کافی
دی۔

الکِفَايَةُ: مہ۔ جو کافی ہو اور غیر سے مستثنیٰ کر
دے۔

الکُفَى وَالکُفَى وَالکُفَى: جس سے کفایت
ہو۔ کہا جاتا ہے "زَجْلٌ كُفَيْتُكَ مِنْ زَجْلٍ" یہ مرد
اس مرد سے تمہارے لیے کافی ہے اس میں مفرد
تشبیہ جمع مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔ الکُفَى:
اندرون داوی۔ ج۔ اَكْفَاءٌ۔

الکُفَيْتَةُ: گزارہ۔ جو تمہاری زندگی گزارنے کے
لائق ہو۔ ج۔ کُفَى۔

الکُفَى وَالکُفَى وَالکُفَى: جو تمہارے لیے کافی ہو اور
تم کو غیر سے مستثنیٰ کر دے۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
زَجْلٌ كُفَايِكُ مِنْ زَجْلٍ وَزَجْلَانِ كُفَايَاكَ
مِنْ زَجْلَيْنِ وَرِجَالٌ كُفَاؤُكَ مِنْ رِجَالٍ" یہ مرد
تمہارے لیے فلاں مرد سے کافی ہے اور اسی تپاس
پر تشبیہ اور جمع۔ کُفَى الزَّجْلُ: مرد کا قائم مقام۔
الکُفَى: بارش۔

المكافآت: مہ۔ احسان کا احسان سے یا اس
سے زیادہ سے مقابلہ۔ اور کہا جاتا ہے "وَزَجْوَتْ
مُكَاْفَاَتِكَ" میں نے تمہارے کافی ہونے کی امید
کی۔

كَلٌّ (ض) كَلًّا وَكِلَّةً وَكَلَالًا وَكُلُوْلًا وَكَلَالَةً
وَكُلُوْلَةً: ٹھکانا۔ صفت کائنات۔ بے والد اور بے
اولاد ہونا۔ السَّنِيْفُ وَغَيْرُهُ: تلوار وغیرہ کا کندہ

ہونا۔ صفت كَلٌّ وَكَلِيْلٌ اللِّسَانُ او البَصَرُ:
زبان یا نگاہ کا اچھی طرح سے کام نہ دینا۔

كَلَّلَ السَّنِيْفَ: تلوار کا کندہ ہونا۔ عَنِ
الْاَمْرِ: بزدل ہو کر رکنا۔ فِي الْاَمْرِ: کوشش
کرنا۔ الزَّجْلُ: اپنے اہل و عیال کو ضائع
ہونے کے لیے چھوڑ دینا۔ السَّنِيْفُ: درندہ کا
حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "كَلَّلَ تَكْلِيْلَةَ السَّنِيْعِ"
یعنی اس نے درندہ جیسا حملہ کیا۔ عَلَيْهِ
بِالسَّنِيْفِ: تلوار سے حملہ کرنا۔ هُ: تاج پستانا
— هُ بِالْحَجَاةِ: چھرا کرنا۔ السَّخَابُ
السَّخَابَةُ بَادِلٌ حَارُونَ طرف سے گھر آنا۔
اَكَلَّ النِّبَاةَ بَصْرًا: نگاہ کا مہم کر دینا۔
الْبَيْتِيُّ: اونٹ کو تھکانا۔ الزَّجْلُ: ٹھکانے
ہونے اونٹ والا ہونا۔

تَكَلَّلَ: تاج پستانا۔ الشَّيْءُ بِهِ: احاطہ کرنا۔
تَكَلَّلُوْهُ: لوگوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ و
اِكْتَلَّ السَّخَابُ عَنِ الْبَيْتِيِّ: آہستہ آہستہ
چمکانا و اِكْتَلَّ الْعَمَامُ بِالْبَيْتِيِّ: بادل میں بجلی
چمکانا۔ کوندنا۔

اِنْكَلَّ السَّنِيْفُ: تلوار کا کندہ ہونا۔ الْبَيْتِيُّ:
بجلی کا آہستہ آہستہ چمکانا۔ الزَّجْلُ: ٹھکانا
— السَّخَابُ عَنِ الْبَيْتِيِّ: آہستہ آہستہ چمکانا۔
الْكَلُّ: مہ۔ کزور۔ وہ شخص جس کے والد اور
اولاد نہ ہو۔ یتیم۔ مرد گراں جان بے خیر۔ چھری یا
تلوار کی پٹینہ۔ وکیل۔ بیت۔ معصیت۔ فقیر۔ عیال
بوجہ اور کل کا اطلاق واقع مدح وغیرہ سب پر ہوتا
ہے اور بعض مذکر مؤنث کی جمع کُلُوْلٌ کہتے
ہیں۔

كَلٌّ: ایک اسم ہے جو متعدد کے افراد کے
استفراق کے لیے یا واحد کے اجزاء کے عموم کے
لیے وضع کیا گیا ہے اور بغیر اضافت کے استعمال
نہیں کیا جاتا تمام اس سے کہ لفظ ہوا یا تقدیر۔ اُورما
صدر یہ حرف کے داخل ہونے سے ٹھکانا کا
فائدہ دیتا ہے جیسے "كُلْمًا اَتَاكَ زَيْدًا اَكْرَمًا"
یعنی زید جب بھی تمہارے پاس آئے تو تم اس کا
اکرام کرو۔ اور معرفہ و کلمہ کی صفت میں بھی
واقع ہوتا ہے اور اس وصف کی انتہا برداشت کرتا
ہے۔ جیسے "هُوَ الْعَالِمُ كُلُّ الْعَالِمِ" وہ بڑا کامل

محقق دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عالم ہے اور معروف و کمرہ محدودہ کی تاکید میں واقع ہوتا ہے جیسے "سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ" و "أَقَمْنَا حَوْلًا كَامِلًا كُلَّهُ" اور لفظ کل کا حکم افراد اور تذکیر کا ہے اور معنی باعتبار مضاف الیہ کے ہوں گے۔ اگر کمرہ کی طرف اضافت ہوگی تو معنی کی رعایت واجب ہوگی اور اس کے بعد ضمیر مفرد مذکر کی آئے گی جیسے "كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ بِحِكْمَةٍ" اور مفرد مؤنث کی بھی جیسے "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" اور شئی کی جیسے "وَكُلُّ وَدِيعَى كَلْبٍ رَجُلٍ وَانْهَمَا" اور مجموعہ مذکر کی جیسے "وَكُلُّ أَنْفَاسٍ سَوَّفَ تَدْخُلُ فِيهِمْ" اور جمع مؤنث کی جیسے "وَكُلُّ مُصِيبَاتِ الزَّمَانِ وَجَدْتُهُنَّ" اور اگر مفرد کی طرف اضافت ہو تو لفظ کی بھی رعایت جائز ہے اور معنی کی بھی جیسے "كُلُّ الْقَوْمِ حَضَرٌ يَأْكُلُ الْقَوْمِ حَضَرًا" اور مقطوع عن الاضافه کی صورت میں بھی لفظ معنی دونوں کی رعایت جائز ہے۔ جیسے "كُلُّ حَضَرٍ وَقَدْرٌ مَعْرُوفٌ" اور اگر معنی کے بعد مضاف الیہ مقدر مفرد اور کمرہ ہو تو مفرد لانا واجب ہے اور اگر جمع معروف ہو تو جمع لانا واجب ہے۔ اور مقطوع عن الاضافه کی صورت میں تخوین مضاف الیہ کے بدلے میں ہے۔ اور تقدیر پہلی مثال میں "كُلُّ أَحَدٍ" ہے اور دوسری میں "كُلُّهُمْ" اور اگر لفظ کل نئی کے بعد واقع ہو تو نئی بعض افراد کی ہوگی۔ جیسے "فَاتَجَاءَ كُلُّ الْقَوْمِ" پوری قوم نہیں آئی کچھ آئے کچھ نہیں آئے اور اگر لفظ کل پہلے ہو اور نئی بعد میں ہو تو نئی سارے افراد کی ہوگی جیسے "كُلُّهُمْ لَمْ يَقُومُوا" یعنی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا اور اس پر الف لام دخل نہیں ہوتا مگر اس وقت جبکہ مضاف الیہ کے عوض میں ہو یا لفظ کل ہی کا ارادہ کیا گیا ہو جیسے "الْكَلْبُ لِأَخَاطِئِ الْأَفْرَادِ"۔

کلا۔ ہرگز نہیں۔ حرف دہ ہے۔ تہیہ اور زجر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

الكلبة۔ کلب کا اسم مرہ۔ کد چمڑی۔

الكلبة۔ تاخیر۔ درہ۔ کل کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے

كلبة امرأة جیسے كلبة افريقي۔

الكلبة۔ باریک پردہ۔ چمڑوالی۔ ہوج کے

سرے پر سرخ اون۔ ج کلب و کلبات) — و (الكلل) حالت۔ کہا جاتا ہے "بَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ" یعنی بری حالت میں رات گزاری۔

الكلالة۔ محکم۔ جس کے والد اور ولد نہ ہو۔ وہ شخص جس کے لیے نسبی رشتہ دار نہ ہوں۔ کہتے ہیں "هُوَ ابْنُ عَمِّ الْكَلَالَةِ وَابْنُ عَمِّ كَلَالَةٍ" جبکہ قبیلہ کاتو ہو مگر قرہی نسبی رشتہ دار نہ ہو۔

الكلبي۔ کل کی طرف منسوب۔ العلم الكلبی: علم الہی۔

كَلْبِيَّةُ الشَّيْءِ: بتامہ۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ بِكَلْبِيَّتِهِ" یعنی تانہ لے لیا۔

الكلبيات فمن عرف المنطقيين: وہ مفہوم ہے جو بہت افراد پر صادق ہو اور اس کی پانچ قسمیں ہیں۔

(۱) جنس: وہ کلی جس کے افراد کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ جیسے حیوان۔

(۲) نوع: وہ کلی جس کے افراد کی حقیقتیں متحد ہوں۔ جیسے انسان۔

(۳) فصل: وہ کلی جو اعداد سے ممتاز کر دے جیسے ناطق۔

(۴) خاص: وہ کلی عرض جو ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو جیسے ضاحك۔

(۵) عرض عام: وہ کلی عرضی جو ایک سے زائد حقیقت کے ساتھ ہو جیسے ماشی۔

الإكليل۔ تاج۔ جو ہر سے مزین پتاج اكلبة و اكليل: ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔ اكليل الملك: ناخن۔ و اكليل العجل: ایک قسم کی نباتات۔

الكليل۔ تمکا ہوا۔ کہا جاتا ہے "بَصُرَ كَلْبِيلٌ" کہوڑا رنگہ "سَيْفٌ كَلْبِيلٌ" کد توار۔ ج کلال۔

كَلَا (ف) كَلَاةٌ وَكِلَاةٌ وَكِلَاةٌ اللَّهُ فَلَانَا: حفاظت کرنا۔ كَلَاةٌ بِالسُّوْطِ: کوڑے مارنا۔ كَلَاةٌ بَصُرَهُ فِي الشَّيْءِ: بار بار دیکھنا۔ التعميم مضي يظلم: ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا۔

كَلَاةٌ كَلْوَةٌ (الذئب): ادا بیگی میں دیر ہونا۔ صفت کالئ و کالئ: غصہ۔ عمر کا ختم ہونا۔

كَلَاةٌ وَكَلْبِيَّةٌ (س) كَلَاةُ الْمَكَانِ: سبزہ زار ہونا

— وَاِكْتَلَابَاتِ النَّافَةِ: اونٹنی کا سبزی کھانا۔

كَلَاةٌ تَكْلِيْفًا وَتَكْلِيْفَةُ السَّفِيْنَةِ: کشتی کو کنارے سے قریب کرنا۔ الوَجَلُ: بازار کھانا۔

— فِي الْأَمْرِ: غور سے دیکھنا۔ إِلَى فَلَانٍ فِي الْأَمْرِ: آگے بڑھنا۔ وَتَكْلِيْفًا: بیجان لینا۔

تَكْلِيْفَةٌ: ہوا سے پناہ کی جگہ میں آنا۔

الطعام وغيره: بیع سلم کرنا۔

كَلَاةٌ مَكَلَاةٌ وَكِلَاةٌ: انتظار کرنا۔

تَكْلَاةٌ وَاسْتِكْلَاةٌ: كَلَاةٌ: بیجان لینا۔

اسْتِكْلَاةُ الْمَكَانِ: سبزہ زار ہونا۔

اِكْتَلَاةٌ كَلَاةٌ: بیجان لینا۔ اِكْتَلَاةٌ عَيْشَةٍ: بے خوابی میں چمکا ہونا اور نہ سونا۔ اِكْتَلَاةٌ فِي الْبَيْتِ: چٹا۔

الكلآة۔ گھاس۔ ج اكلآة۔

الكلآة۔ بندرگاہ۔ دریا کا کنارہ۔

الكلاليس و الكالبي۔ بیجان۔ ادھار ج کوالی و کوال۔

مَكَانٌ كَلْبِيٌّ وَكَلْبِيَّةٌ: بہت سبزہ زار۔ مؤنث كَلْبِيَّةٌ وَكَلْبِيَّةٌ۔

رَجُلٌ كَلْوَةٌ الْعَيْنِ: مرد بیدار چشم جس پر نیند کا ظہور نہ ہو۔ عَيْنٌ كَلْوَةٌ: بے نیند کی آنکھ۔

الكلآة۔ بیجان۔ ادھار۔

الْاِكْتَلَاةُ: اسم تفصيل۔ اور کہا جاتا ہے "بَلَّغَ اللَّهُ بِكَ اِكْتَلَاةَ الْعَمْرِ" یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری انتہائی عمر کرے۔

أَرْضٌ مَكَلَاةٌ: بہت سبزہ زار زمین۔

المكلاة۔ بندرگاہ۔ دریا کا کنارہ۔ ہر وہ جگہ جہاں ہوا سے پناہ لے سکیں۔

كَلْبٌ (ان) كَلْبِيَّةُ الْفَرَسِ: گھوڑے کو ہمیز مارنا۔ الْمَرْوَاةُ: توشہ دان میں تسمہ لگانا۔

كَلْبٌ (ض) كَلْبِيَّةُ الرَّجُلِ: کتوں کے بھونکنے کے لیے انہیں کی طرح آواز لگانا۔

الكلب: کتے کا لہجہ ہونا۔

كَلْبٌ (س) كَلْبِيَّةٌ: پاسا ہونا۔ الكلب: دیوان ہونا۔ الرَّجُلُ: پاگل کتے کے کانٹے سے دیوانگی والا ہونا۔ عَلِيٌّ الْأَمْرِ: حریف ہونا۔ لِي: کٹنا۔ امید رکھنا۔ عَلِيٌّ الرَّجُلِ: اصرار کرنا۔ الرَّجُلُ: بغیر آسودگی

کلب

کے بہت کھانا۔ دیوانہ کئے کا کانا۔ دیوانہ کئے کے کائے سے چمنا۔ غضبناک ہونا۔ فروماچی کرنا۔

— الکلب: کئے کا لالو ہونا — القذ علی الایسیر: خشک ہونا — الشجر: درخت کی سیرابی نہ ہونے کی وجہ سے چوں کا خشک ہونا اور گزرنے والے کے کپڑوں سے الجھنا —

المشاغوا الزمان: سخت ہونا۔

کلب کلابا الزجل: کئے کے کائے کی وجہ سے دیوانہ ہونا۔

کلب الکلب: کئے کو سدھانا۔

کالب کلابا و مکالبہ الزجل: کھلم کھلا دشمنی کرنا اور ٹھگی ڈالنا۔ تکالب الایلی: اڈنوں کا کائے دار درخت چرنا۔

اکلب القوم: بہا سے اڈنوں والا ہونا۔

تکالب القوم: کھلم کھلا آپس میں دشمنی کرنا — علی کذا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "تکالب الناس علی الدنیا" یعنی لوگ دنیا کے بہت حریص ہو گئے۔

استکلب الزجل: کتوں کی طرح ہونکنا۔

— الکلب: کئے کا لالو ہونا۔ انسان کے کھانے کا عادی ہونا۔

الکلب: ہر ایک کائے والا درندہ۔ کتاب کلاب۔ واکلب ورج اکالب و کلابات

الکلب: بچل کے دھرے کے سرے کا لالہ۔ کادوہ کے کنارہ کی بیخ۔ جس پر مسافر اپنے توشہ وغیرہ کو لٹکائے۔ دیوار میں ٹیک لگانے کی تھونی۔ ٹیلہ کا

کنارہ۔ کنارہ کے قبضہ کی بیخ من القوم: گھوڑے کی پیٹھ کی دھاری۔ کہا جاتا ہے

"استوی علی کلب قریبہ" وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر جم کے بیٹھ گیا اور کہا جاتا ہے "کف عتہ کلابہ" یعنی اس نے گلی دینی اور تکلیف

پہنچائی چھوڑی دی۔ اور فلان توادی الکلب" جبکہ گھر بار نہ ہو جہاں وہ ٹھکانا لے سکے۔

الکلب: ودادی کے پانی کی پہلی زیادتی۔ ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ کلب الماواو

کلب البخر: ایک قسم کی پھل جو کتے سے کچھ

مشابہ ہوتی ہے اور دم لمبی اور کان ٹانگیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور رجم سرخ سیاہی مائل

کلب

ہوتا ہے۔ الکلب و کلب العتار والکلب الاکبر والکلب الاصغر و کلب الزاجعی: ستاروں کے نام۔ کف الکلب: ایک قسم کی پھل ہوتی گھاس۔ لسان الکلب: ایک نباتات۔

الکلاب: کتے کے کائے کی وجہ سے دیوانگی۔

الکلب: کلب کا صدر۔ کتے کی دیوانگی۔ سخت پیاس۔ ابتدائی سرد اور کہا جاتا ہے "دفعت عنک کلب فلان" یعنی میں نے تم سے فلاں کے شرکو دور کر دیا۔

الکلبہ: کتیا۔ کانا۔ ام کلبہ: بخار۔

الکلبان: لوہار کا زبور۔ دانت اکھانے کا زبور۔ اور اس کو کلابہ بھی کہتے ہیں۔

الکلبہ: سختی۔ ٹھگی۔ قحط۔ شدت۔ سرمایہ۔ کتے کی تھو تھنی کے دونوں طرف کے بال۔ شراب فروش کی دکان۔

الکلاب والکلبوب: ممیز۔ آگ نکالنے کی لیے مڑے ہوئے سر کی سلاخ۔ آکس ج کلابیب: کلابیب الثبازی: باز کے پتے۔

کلابیب الشجر: درخت کے کائے۔

الکلاب والکالب: کتے والا۔ الکلاب کتوں کو سدھانے والا۔ کادوہ کے کنارہ پر گھم لٹکانے کی

لیے بیخ۔ گوشت وغیرہ لٹکانے کے لیے لوہے کا کڈا۔ ج کلابیب۔

الکالب والکلب: کتوں کا جھنڈ۔

الکلب ج کلبون والکلب ج کلبی: کتے کے کائے سے دیوانہ۔ عام کلب: سخت اور قحط کا

سال۔ دھو کلب: غم میں جھلا کرنے والا دور۔ سائل کلب: بہت اصرار سے مانگنے والا سائل۔

اور کہا جاتا ہے "هو کلب علی کذا" وہ فلاں چیز کا بہت حریص ہے۔

الکلبہ: کلب کا مٹھ۔ خار دار درخت

أرض کلبیة وأرض کلبیة الشجر: خشک زمین۔

المکلب: مفع بہزی پڑا ہوا قیدی۔ کلابت مکلبتہ: سدھے ہوئے کتے۔

المکلب کتوں کو سدھانے والا۔ شکار پکڑنے والے جانور۔

المکالب: دلیر۔

کلب

أرض مکلبتہ: بہت کتوں والی زمین۔

کلبت (ض) کلبت الشی: جمع کرنا۔ کلبت بہ: پھینکنا۔ کلبتہ فی الإناء: برتن میں اٹھلنا

الفرس: گھوڑے کو چلانا۔

انکلبت الماء: ڈالا جانا — الزجل: متبعض ہونا۔

انکلبت الماء: چینا۔

الکلبتہ کھانے کا حصہ۔

الکلبت والکلبت: لما پھر جس سے جو کے بہت کو بند کیا جائے۔

کلبت کلبتہ فی افوہ: بدابنت برتا۔ سستی کرنا۔

الکلب والکلب کاسوں میں سستی کرنے والا۔

کلبم کلبتہ لحم الوجوہ: بلا ترش روئی کے چہرے کا گوشت سمٹنا۔

الکلبوم: چہرے اور رخساروں پر زیادہ گوشت ہونا۔ جھنڈے کے سرے پر رجم کا ٹکڑا۔

الکلب: ہمار غمی۔

الکلب: قوی نوک۔

کلب (ف) کلبوا و کلبوا وجہہ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔ صفت کلب: کہا جاتا ہے "کلب فی وجوہ الصبی او المعجنون" یعنی بچے یا

مجنون کو گھبراہٹ میں ڈال دیا۔

کلب وجہہ: ترش رو ہونا۔ تیوری چڑھانا۔

کلب وجہہ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔

کلب وجہہ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔

کلب وجہہ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔

کلب وجہہ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔

کلب وجہہ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔

سیاہی مائل ہو۔ سرخ سیاہی مائل شراب کا ملکا۔
 الفُكْلُفُ والمُكْلِفُ کلفات کرنے والا۔
 امور لائینی میں پڑنے والا۔
 الکُفْلُکُ۔ چھوٹی کشتیاں جو عراق کے دریاؤں
 میں چلائی جاتی تھیں۔ ج کفکات۔
 الکُفْلُکُ ج کفلاکلی والکُفْلُکُ۔ سید۔ نعل
 کی ہڈیوں کے درمیان کا حصہ۔ من الفؤم :
 بیٹھے کی حالت میں سید کا جتنا حصہ زمین پر لگے
 الکفلاکلی : جماعتیں۔
 الکُفْلُکُ والکُفْلُکُ۔ مضبوط۔ جیسے بدن کا
 پتہ۔ تد مرو۔ مؤنث کفکفہ و کفکفہ۔
 کلمۃ (ن ض) کفمًا۔ زخمی کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”هَذَا وَمَا يَكْلِمُ الْغُرَضُ وَالِدِينَ“ یہ ان
 چیزوں میں سے ہے جو دین اور آبرو میں عیب
 لگائے۔
 کلمۃ تکلیمًا۔ زخمی کرنا — تکلیمًا
 کلامًا بات چیت کرنا۔
 کالمۃ کالمۃ۔ منفقو کرنا۔
 تکالم الزجلان : جدائی کے بعد گفتگو کرنا۔
 کہا جاتا ہے ”کَانَا مُتَصَارِمِينَ فَأَصْبَحَا
 يَتَكَلَّمَانِ“ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑے
 ہوئے تھے۔ پھر گفتگو کرنے لگے۔ اس موقع پر
 يَتَكَلَّمَانِ ہی کہا جائے گا۔ يَتَكَلَّمَانِ نہیں۔
 تَكَلَّمَ تَكَلَّمًا وَتَكَلَّمًا وَتَكَلَّمًا الزجلان کلمۃ و
 بِكَلِمَةٍ بات کرنا۔
 الکلم۔ مہ۔ زخم۔ ج کفوم و کلام۔
 الکلمۃ۔ ج کلم و کلمات والکلمۃ۔ ج
 کلیم والکلمۃ ج کلمات : لفظ۔ مفرد یا مرکب
 جو انسان بولے۔ کلمۃ التوحید : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کلمۃ التقوی : بِسْمِ اللَّهِ
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. العشر الکلمات : اللہ
 تعالیٰ کے دس احکام جو بنی اسرائیل پر نازل
 ہوئے تھے۔ الکلمۃ و کلمۃ اللہ سیدنا محمدی
 ﷺ کا لقب۔ اور کلمۃ کا اطلاق خطبہ اور قصیدہ
 پر بھی ہوتا ہے۔
 الکلام۔ قول۔ منفقو۔ جملہ۔
 الکلام۔ خت زمین۔
 الکلماتی والکلماتی والکلماتی

اور پھلنا۔
 کَلِفَ (س) وَكَلَفَ (ف) كَلَفًا. الْوَمُضُ عَلَى
 زَايِهِ اَوْ لِي زَايِهِ : سر پر میل کا خشک ہونا۔ کَلِفَ
 زَايَهُ : سر کا میلا ہونا۔ كَلِفَتْ قَوْلًا الذَّابِقُ :
 چھاپے کی تاغوں میں خت غارش ہونا — كَلَفًا
 وَكَلَفًا التَّجْوِيزُ : پھینے ہوئے کھروالا ہونا۔
 اَكْلَفَهُ الْوَمُضُ : میلا پھیلا ہونا۔ میل پھیل کا۔
 بتہ جملہ۔
 تَكَلَّفَ الْفَوْمُ : جمع ہونا اور یاہم قسم کھانا۔
 الكلف۔ مردہ توارہ۔ فرمایا۔ ج کلفۃ۔
 الكلف۔ بوائی۔ پیر کی پھین۔
 الكلف۔ بوائی والا۔ جس شخص یا چیز پر میل جم گیا
 ہو۔ مؤنث کلفۃ کہا جاتا ہے ”هُوَ اسْوَدَّ كَلِفًا“
 یعنی وہ کالا ہے اور اس کی سیاہی میل کی مانند ہے۔
 الكلفۃ۔ بکریوں کے یوز کا ایک حصہ۔ بہت سی
 بکریاں۔
 الكلفۃ، ایک مرض ہے جو اونٹ کے پھیلے
 حصہ میں ہوتا ہے۔
 الكفول۔ میل پھیل۔
 الكلاع۔ مہ۔ سختی۔ شدائد میں صبر۔ مواقع
 جنگ۔
 الكلاءع۔ مرد لیر۔
 کلف (س) کلفًا الوجہ : چہرہ کا جمائیں والا
 ہونا۔ صفت اکلف۔ مؤنث کلفاء۔ پہ۔ عاشق
 زار ہونا۔ صفت کلف — الأمز : مشقت پر
 برا بیگینہ کرنا۔ کلفہ دشوار کام کا حکم دینا۔
 اكلفه بكذا : عاشق زار بنانا۔ تكلّف الأمر :
 دشوار کام برواشت کرنا۔ کلف کرنا۔
 اكلاف اكليفًا : جمائیں کے رنگ کا ہونا۔
 الكلف۔ سیاہی زدہ مائل۔ جمائیں۔
 الكلف۔ عاشق زار۔
 الكلفۃ۔ جمائیں کارنگ۔
 الكلفۃ۔ مشقت۔ رنج۔ سختی۔ کسی معیبت یا حق
 کے ہارے میں جو رنج جمائیں لاحق ہو ج کلف۔
 التکلیفۃ۔ مشقت۔ ج تکالیف۔
 الکفوف۔ دشوار آخر۔
 الکلافۃ۔ خت فحبت۔ اشتیاق۔
 الکلفاء۔ اکلف کا مؤنث۔ تیز سرخ شراب جو

الکالف۔ فا۔ وہ شخص جس کے ہونٹ کھلے
 ہوئے ہوں۔ کہا جاتا ہے ”ذَهَبُوا شِفَاؤَ كَالِفٍ“
 خت زنا اور سخت سردی۔
 الكولج۔ قحج۔
 كَلْعَبَ كَلْعَبَةً. كَوَارِسَ مَارَتَا۔
 الكَلْعَبَةُ. آگ بھڑکنے کی آواز۔
 الكلجم۔ مٹی۔ خاک۔
 كَلَّدَ (ض) كَلَّدًا وَكَلَّدَ الشَّيْءُ : جمع کرنا۔
 تَكَلَّدَ الزَّجْلُ : موٹے گوشت والا ہونا۔
 قوی ہونا۔
 الكلد۔ خت زمین۔ واحد کلدۃ۔
 الاکلید۔ کئی۔ (دخیل)
 الكلدّم۔ خت۔
 الكلدوم۔ پتہ۔ قد۔
 كَلَّرَ (ض) كَلَّرًا وَكَلَّرَ الشَّيْءُ : جمع کرنا۔
 اَكَلَّرًا كَلَّرَ اَزًّا. البأزی : باز کا سٹ کر شکار
 پکڑنے کا ارادہ کرنا — الزجل : سگڑا۔
 الكلوز۔ مضبوط شے والا مرد۔
 كَلَّسَ النِّبْتَ : جج سے استرکاری کرنا۔
 — الشئ : گج کی مانند بنانا۔ كَلَّسَ عَرَضَ قِيْرَبِه :
 بزدل ہونا اور بھاننا — عَلَيَّه : جملہ کرنا — مِن
 المضاء : پانی سے سیراب ہونا۔
 تَكَلَّسَ : چونا یا جج ہونا۔ چونا یا جج کی مانند ہونا۔
 — مِن المضاء : پانی سے سیراب ہونا۔
 الكلس۔ چونا یا چونا رکھ ملا ہوا۔
 الكلمۃ۔ جمورارنگ۔
 الاكلس۔ چونہ والا۔ چونا پیچنے والا۔ سَنَيْفٌ
 كَلَّاسٌ : شمشیر براں۔
 الفتكلس۔ تیز و ژرنے والا۔
 الاُنكليس۔ ایک پھلی جو سانپ کی مانند ہوتی
 ہے اور اس کو سخت ککلیس بھی کہتے ہیں (دخیل)
 كَلَّسَمَ الْيَبِيَّ : قصد کرنا ارادہ کرنا۔
 الزجل : تیز جانا۔ اداء حقوق میں کھلی کی وجہ سے
 تاخیر کرنا۔
 الكلفۃ۔ بڑھیا۔
 كَلْفَمَ الزَّجْلُ : بھاننا۔
 كَلِفَتْ (س) كَلَفًا قَدَمُهُ : قدم کا میلا ہونا

الکِمَامَةُ وَالکِمَامُ. تھو تھنی جس سے جانور کے منہ کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ کھا اور کات نہ سکے۔

المَكْمُومُ. منع — مِنَ التَّخْلِی: درختِ ثمر جس میں غلاف گھونڈ نکل آئے۔

البِھِکْمَةُ. تھو تھنی۔
کَمِئٌ (س) کَمًا. پوشیدہ ہونا — عَنِ الْأَخْبَارِ نَادِقٌ ہونا۔ بے خبر ہونا۔ كَمِئَتْ يَدُهُ مِنَ التُّبْرِدِ أَوْ الْعَمَلِ: ہاتھ کا سردی یا کام سے پھینا۔

كَمَاءُ (ف) كَمًا. سانپ کی چھتری کھانا۔
أَكْمَأُ أَكْمَاءً. الصَّكَّانُ: بہت سانپ کی چھتری والا ہونا — الزُّجْلُ: سانپ کی چھتری کھانا — الْمِسْقُ فَلَانًا: بوڑھا کرنا۔

تَكْمَأَةُ: پائیند کرنا۔ براجانا۔ تَكْمَأَتٌ عَلَیْهِ الْأَرْضُ: پوشیدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَوَجَ النَّاسُ بِتَكْمَأُؤُنِ" یعنی لوگ سانپ کی چھتری چننے کے لیے لگے۔

الکَمُّءُ: مس۔ سانپ کی چھتری اور اس کو شحم الارض بھی کہتے ہیں جِ أَكْمُوءٍ وَ كَمَاءَةٍ۔

الکَمَاءُ: سانپ کی چھتری بیچنے والا۔ سانپ کی چھتری بیچنے کے لیے چننے والا۔

المَكْمَامَةُ وَالْمَكْمُوءَةُ: سانپ کی چھتری کی جگہ۔

كَمْتُ (ک) كَمْنَا وَ كَمَانَةٌ وَ كَمْفَةٌ الْفَرَسُ: کیت ہونا۔

كَمْتُ (ن) كَمْنَا. الْفَرْطُ: غصہ کو دینا۔

كَمْتُ الْقَوْبُ: کپڑے کو سیاہی مائل سرخ رنگنا۔

كَمِفْتُ وَ كَمِيفًا الْخَمْرُ وَالْفَرَسُ وَغَيْرُهُمَا: کیت، ہلایا جانا۔

أَكَمْتُ وَ أَكْمْتُ وَ أَكْمَاتُ الْفَرَسُ: گھوڑے کا کیت ہونا۔

الکَمْفَةُ: کیت رنگ۔

الکَمْفَةُ مِنَ التَّخْلِی: (المذکور والمؤنث)

سرخ سیاہ رنگ والا۔ اور یہ خلاف قیاس أَكْمْتُ کی تصغیر ہے۔ جِ كَمْفَتِ الْكَمْفَتِ: شراب۔ کہا

الزُّجْلَانِ كِلَاهُمَا وَ أَيْتُ الزُّجْلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَالْمَوْزُ: تِنِّنٌ كِلَيْتَهُمَا" اور جب ضمیر ان کی طرف راجع ہو تو لفظ کی رعایت جائز ہے جیسے

"كِلَيْتَا الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أَكْلَهُمَا" وَ "زَيْدٌ وَعَفْرٌ وَ كِلَاهُمَا قَائِمٌ" اور یہی الفح ہے اور رعایت

معنی بھی جائز ہے۔ جیسے "كِلَاهُمَا قَائِمًا" وَ "زَيْدٌ وَعَفْرٌ وَ كِلَاهُمَا قَائِمَانِ" اور یہ کم ہے۔ اور

"كِلَاهُمَا مُجِبٌّ لِصَاحِبِهِ" جیسی ترکیب میں رعایت لفظ متعین ہے اس لئے کہ معنی کُلٌّ وَ مِثْلُهُمَا کے ہیں۔

الإِخْلِيئُوسُ: گر جا کے غارم۔ واحد اِخْلِيئِيئِيٌّ وَ جِ اِخْلِيئِيئِيئُونَ۔

كَمٌّ: دو قسمیں ہیں۔ (۱) استفہامیہ اور اس کا میز منسوب ہوتا ہے جیسے كَمٌّ دِزْهُمَا لَكَ یعنی

تمہارے کتے درہم ہیں۔

(۲) خبریہ بمعنی کثیر اس کا میز مجرور ہوتا ہے جیسے كَمٌّ عَبْدٌ أَوْ عِبْدٌ مَلَكَتْ: میں بہت غلاموں کا مالک ہوں۔

كَمٌّ (ن) كَمًا. چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔ التَّهَيُّؤُ: اونٹ کے منہ پر تھو تھنی چڑھانا — النَّاسُ: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔

كَمَمْتُ وَ كَمَمْتُ كَمًّا وَ كَمَمْتُمَا التَّخْلَةُ: درختِ ثمر میں گھونڈ آنا۔ صفت مَكْمُومٌ۔

كَمَمْتُ وَ أَكَمْتُ الْفَمِيضُ: کرتے میں آستین لگانا۔

كَمَمْتُ وَ أَكَمْتُ التَّخْلَةَ: درختِ ثمر کا گھونڈ دار ہونا۔

تَكَمَّمْتُ بِبِطَائِبِهِ: اوڑھنا۔ چھپانا۔ تَكَمَّمْتُ: بند کرنا۔ لپٹنا۔

تَكَمَّمْتُ الْقَوْمَ: بد ہوش ہونا۔ ڈھانکا جانا۔

الکَمَّةُ وَالکَمِيَّةُ: مقدار۔

الکَمِيَّةُ: کم کی طرف نسبت۔ مؤنث کَمِيَّةٌ۔

الکَمُّ: آستین۔ جِ أَكْمَامٌ وَ كَمْفَةٌ۔

الکَمْفَةُ: گول ٹوپی۔ ڈھلکا۔

الکَمَّةُ: غلاف گھونڈ۔ جِ أَكْمَةٌ وَ أَكْمَامٌ وَ كِمَامٌ وَ أَكْمَامِيٌّ۔

أَكْمَةُ التَّخْلِی: توبہ۔ واحد کِمَامٌ۔

الکِمَامَةُ: پھول کا غلاف۔ مجرور کے گھونڈ کا غلاف۔

وَالکِمَامَاتِي فَصِحُّهُ أَوْ عَمْرُهُ مَعْتَكُو كَرْنَةُ وَاللَّامُ بِسْت بُولَةُ وَاللَّامُ فِي مِثْلِهَا كَالنَّاسِ مِنْ مَوْنَتٍ كَامِيْنَةً هُوَ جَائِزٌ كَمَا۔

زَجَلٌ بِكَلَامَةٍ وَ بِكَلَامٍ وَ بِكَلَامَةٍ وَ بِكَلَامَةٍ عَمْرُهُ أَوْ فَصِحُّهُ مَعْتَكُو كَرْنَةُ وَاللَّامُ۔

الکَلِيمُ: مجروح۔ جِ كَلَمِيٌّ — تمہارا ہم کلام جِ كَلَمَاءُ الْکَلِيمِ وَ كَلِيمَةُ اللّٰهِ: حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔

زَجَلٌ كَلِيمٌ: بہت بولنے والا۔

المُعْتَكَمُ: فَا۔ علم کلام کا پڑھنا۔

المُعْتَكَمُ: معتنق کی جگہ۔ تم کہتے ہو مَآ أَجَدُ مُعْتَكَمًا یعنی معتنق کی جگہ میں نہیں پاتا ہوں۔

کَلَمِيٌّ یُکَلِمُنِي کَلِمًا: الزُّجْلُ: گردے پر مارنا۔ صفت مفعول مَعْتَكَمِيٌّ۔

کَلَمِيٌّ (س) کَلَمِيٌّ وَ اِکْمَلِيٌّ: گردے پر لگانا۔ وَ اِکْمَلَاءُ: گردے پر مارنا۔

کَلَمِيٌّ: در در گردے میں چلا ہونا۔

کَلَمِيٌّ تَكَلِمَةٌ: چھپنے کی جگہ میں آنا۔

اِکْمَلُوْی اِکْمَلَاءُ: شکست کھانا۔

اِکْمَلِيَّةٌ وَ اِکْمَلُوْیَةُ: گردہ۔ مثنی کَلَمِيَّتَانِ وَ کَلَمُوْتَانِ جِ کَلَمِيٌّ وَ کَلَمِيَّتَانِ: کَلَمِيٌّ الْوَادِي: وادی کے اطراف جو اونپ۔ کہا جاتا ہے "عَفْمٌ حَفْرَاءُ الْکَلَمِيٌّ" ذیلی پتلی کبیراں وَ "لَقِيْتُهُ بِشَحْمِ كَلَامَةٍ" میں نے اس سے آغاز جوئی اور

ایامِ ثَلَاثِ مَلَاقَتِ كِي وَ اِکْمَلِيَّةٌ مِنَ الْقَوْمِ: کمان کے قبضہ سے تین ہاشت — وَ مِنَ السَّحَابِ: بادل کا نیچے کا حصہ الْکَلَمِيٌّ مِنَ الطَّيْرِ: بازو کے چار پر۔

الکَلَمِيٌّ: درد گردہ والا۔

کِلَاوٌ وَ کِلْمًا: یہ دونوں اسم لفظ مفرد اور معاشی ہیں اور کلا سے مذکر کی اور کلتا سے مؤنث کی

تاکید ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ ایسے کلمہ کی طرف اضافت ہوتی ہے جو معرفہ اور تشبیہ پر دلالت

کرتا ہو اور جب اسم ظاہر کی طرف اضافت ہوتی ہے تو الف اپنی حالت پر باقی رہتا ہے اور اعراب

تقدیری ہوتا ہے جیسے "زَيْدٌ كِلَاوٌ الزُّجْلَانِ وَ كِلْمًا الْمَوَاتِنِ" اور جب ضمیر کی طرف

اضافت ہو تو تھنی جیسا اعراب ہوتا ہے جیسے "جَاءَ

کرمنا — قَوَائِمُ الذَّابَّةِ: چوپایہ کی ٹانگیں کاٹنا۔
 — فی الصَّاءِ: پالی میں اترنا۔ كَمَعَتِ الذَّابَّةُ:
 آہستہ چلنا۔
 كَمَاعَةٌ: ملا۔ ہم بستری کرتا۔
 كَمَعَتِ الْإِنَاءُ: برتن میں منہ لگا کر پینا۔
 الكَمْعُ اترنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَيْنٌ
 كَمْعُهُ" یعنی فلاں اپنے گھروار اپنی جگہ میں ہے۔
 وادی کا گوشہ۔ قبلاہ پست زمین (— والكَمِيعِ)
 ہم خوبا۔
 الكَمْعُ: ران کی گرہ۔
 الفُكْمَاعُ: قبا۔ اپنے قریب جس سے کوئی بات
 پوشیدہ نہ رہے۔
 كَمَعْتُمْ كَمْعَةَ الشَّيْءِ: پوشیدہ کرنا۔
 تَكَمَعْتُمْ: گول ٹوپی پہننا — یعنی بیاباہ چھپنا۔
 الكَمْعُكَامُ: پستہ قد گھٹے بدن کا۔ مَوْنَتُ
 كَمْعُكَامَةٍ۔
 كَمَلٌ (ن) او كَمَلٌ (ك) او كَمِلٌ (س) كَمَلًا
 وَ كَمُولًا وَ تَكَمَلٌ وَ تَكَامَلٌ وَ اكْتَمَلٌ: پورا
 ہونا۔ کمال ہونا۔
 كَمَلٌ وَ اكْتَمَلٌ وَ اسْتَكَمَلُ الشَّيْءُ: پورا
 کرنا۔ كَمَلٌ وَ اكْتَمَلُ الشَّيْءِ: ٹوٹل کرنا۔
 الكَمَلُ كَالِ: پورا۔ کہا جاتا ہے "أَعْطَيْتُهُ
 الْأَمَالَ كَمَلًا" میں نے اس کو پورا مال دیا۔ اور یہ
 لفظ جمع اور واحد میں برابر ہے اور یہ نہ تو مصدر
 ہے اور نہ صفت اور یہ ہمارے قول أَعْطَيْتُهُ
 الْأَمَالَ كَمَلًا جیسا ہے۔
 الكَمَالُ: مہم۔ اہم مصدر۔ کہا جاتا ہے "لَكَ
 كَمَالُ الشَّيْءِ" یعنی ہمارے لئے یہ چیز
 کل ہے۔
 الكَمِيلُ: کمال۔
 الكَامِلُ: قبا۔ جس کے ۱/۲ پورے ہوں جس
 کی صفات پوری ہوں۔ خدا تعالیٰ کی صفات
 تَكَمِيلَةُ الشَّيْءِ: جس سے کوئی چیز پوری
 کی جائے۔
 المِكْمَلُ: خیر یا خیر میں کمال مرد۔
 كَمَنَ (ن) او كَمِنَ (س) كَمُونًا: چھپنا۔ سمجھ
 میں نہ آنے والے کام میں دخل دینا۔
 كَمَنَ (ن) كَمُونًا الشَّيْءُ: پوشیدہ کرنا۔ چھپانا۔

الكَمْدُ وَالكَمْدُ وَالكَفْدَةُ: رنگ کا بدلنا۔
 صَفَالِي كَابَا تَارِهًا: نم۔ سخت اندر۔
 الكِمَادُ: کھور کرنا۔ بَيتَانَا (— وَ الكِمَادَةُ)
 کھور کرنے کی ٹہنی۔
 اَكْمَدُ اللَّوْنُ: بدلے ہوئے رنگ والا ہونا۔
 الكَمْرُ: ہر وہ عمارت جس میں محراب جیسا ہو
 جیسے پل وغیرہ۔
 كَمْعَرُ (ض) كَمْعَرُ الصَّعِينِ وَ نَعْوَةٌ: گندھے
 ہوئے آنے کو ہاتھ سے گول بنانا۔
 الكَمْعَرَةُ: کھجور وغیرہ کا کچھا۔ ریت یا مٹی کا ٹیلہ۔
 ج كَمْعَرُ۔
 كَمْعَسُ (ن) كَمْعُونُ شَا: توری چڑھانا۔
 الْأَكْمَسُ: جو دیکھ نہ سکا ہو۔
 كَمْعَسُ (ن) كَمْعَسًا النَّاقَةُ: اُدُنْتِي کے قمرن
 باندھنا — فَلَانًا بِالسَّنِيفِ: تھوڑے اعضاء کو
 کاٹنا — الزَّادُ: توشہ ختم ہونا۔
 كَمِشَ (س) كَمِشًا: پھرتلا اور کچے ارادہ والا
 ہونا۔
 كَمِشَ (ك) كَمِشًا: دلیر ہونا۔ كَمِشَتِ
 الْعَزُ: ۴: چھوٹے بیتان والی ہوتا (—
 وَ اكْمِشَ) فِي الشَّرِّ وَ غَيْرِهِ: چمچلنا۔ اكْمِشَ
 بِالنَّاقَةِ: اُدُنْتِي کے پورے قمرن کو باندھ دینا۔
 كَمِشَ الْحَادِي بِالسُّوقِ: حدی پڑھنے
 والے کا کوشش سے ہانکنا — فَلَانًا: جلدی کرنا
 — ذَيْلُهُ: درامن سینا۔
 اِنْكَمَشَ وَ تَكَمَشَ الزَّجُلُ: دوڑنا۔ تَكَمَشَ
 الْجِلْدُ وَ نَحْوُهُ: سکرنا۔ اِنْكَمَشَ النَّوْبُ بَعْدَ
 الْمُنْجَلِ: کپڑے کا دھونے کے بعد سکرنا۔ سمنٹا۔
 الكَمِشَ وَالْكَمِشَ وَالْكَمِيشَ مِنْ
 الرِّجَالِ: پھرتلا۔ کچے ارادہ والا۔ عرب کے امثال
 سے ہے "كَمِيشُ الْاِزَارِ" ازار سمیٹنے والا۔ یعنی
 پھرتلا۔
 الكَمِشَ وَالْكَمُوشَ وَالْكَمِيشَةَ
 وَالْكَمِيشَةَ مِنْ الْاِنَاءِ: چھوٹے قمرن یا بیتان
 والی۔
 الْأَكْمَشُ: چھوٹے قدم والا جو دیکھ نہ سکا ہو۔
 مَوْنَتُ كَمِشَاءِ ج كَمِشَ۔
 كَمِعَ (ف) كَمِعًا فِي الْاِنَاءِ: برتن میں منہ لگا

جانا ہے خَبَلٌ كَمَائِي: گیت گھوڑے۔
 الكَمِيشَةُ: جڑ۔ اصل۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ
 بِكَمِيشَتِهِ" یعنی اس نے اس کو مع جڑ کے لے
 لیا۔
 كَمَفَزَ: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا —
 الْقَرْبَةُ: منگ کو بدن سے ہاتھ دینا۔ اَلْحِقَاءُ
 منگ بھرنا — الْقَصِيْرُ: پستہ قد کا دوڑنا۔
 الكَمْفَشُ وَالْكَمَائِي: موٹا۔ پستہ قد۔ سخت
 مضبوط۔
 كَمَفَزَ الشَّيْءُ: جمع ہونا اور بعض کا بعض میں
 داخل ہونا۔
 الكَمَائِي: پستہ قد۔
 الكَمْفَزِيُّ: الحوت۔ واحد كَمْفَزَةٌ: ناپاتی۔
 الكَمْعَجُ: بن ران۔
 كَمْعَجُ (ف) كَمْعَجًا الذَّابَّةُ: چوپایہ کو کھینچ کر
 ٹھہرانا۔
 اَكْمَعُ الذَّابَّةُ: چوپایہ کو کھینچ کر ٹھہرانا۔
 الكَوْمُ: پستہ نکالنے کے قریب ہونا اور خوش
 انگور لٹنے کی جگہ ظاہر ہونا۔
 اَكْمِعُ الزَّجُلُ: بڑا بنایا جانا۔
 الْمَكْمِعُ: بڑا بنایا ہوا۔
 كَمْعَجُ (ف) كَمْعَجًا بِنَفْسِهِ: تکبیر کرنا —
 الْفَرَسُ بِالْحَجَامِ: گھوڑے کو لگام کھینچ کر
 ٹھہرانا۔
 اَكْمِعُ الكَوْمُ: پستہ نکالنے کے وقت خوش
 انگور لٹنے کی جگہ ظاہر ہونا۔
 الكَمَاخُ: فرور۔ بڑا بنانا۔
 الكَامِخُ: سالن۔ اور بعضوں نے سرکہ کی
 چٹنی کے لئے خاص کیا ہے۔ ج كَوَامِخُ (دخیل)
 كَمِجَدُ (س) كَمِجَدًا: بدلے ہوئے رنگ والا ہونا
 — الزَّجُلُ: نم سے بیمار دل والا ہونا۔ صفت
 کَامِدُو كَمِدُو كَمِيدُو كَمِيدُو كَمِيدُو كَمِيدُو
 ہونے کی وجہ سے بدلے ہوئے رنگ والا ہونا۔
 كَمِجَدُ (ن) كَمِجَدًا وَ كَمِجَدًا الْقَصِيْرُ النَّوْبُ
 و حَمَلِي كَايْرُے كَوَاثَا: اور ارام الكِمَادِ ہے۔
 اَكْمَدُ الْهَمَّ فَلَانًا: تمکین کرنا۔ اداس کرنا۔
 دِل كَوِيَار كَرَا (— وَ كَمَدَةُ الْعَضُو: کھور کرنا۔
 بیگانہ۔ صفت مفعول بِكَمْعُونُ د۔

کَمِينٌ (س) وکَمِينٌ کَمُونًا آگہ میں تاریکی یا پکوں میں ورم والا ہوتا۔ کَمَيْشٌ وکَمَيْشٌ عَيْشَةٌ تاریکی والی یا پکوں میں ورم والی ہوتا۔

اَكْمَنَ الشَّقِيَّ چھپانا۔
تَكَمَّنَ وَاكْتَمَنَ چھپانا پوشیدہ ہونا۔
الْكُمْفَةُ آگہ کی تاریکی یا پکوں میں ورم۔
ایک بیماری جس سے آگہ کی پلکیں سرخ ہو جاتی ہیں۔

الکَمِينِ بغیر کچھے پوچھے کام میں دخل دینے والا۔ ج کَمْفَاءٌ کلمات اور کہا جاتا ہے "هَذَا أَكْمَرٌ لِيهِ كَمِينٌ" یہ ایسا معاملہ ہے جس میں ایسا فساد ہے جو نا اعلیٰ سمجھ ہے۔

الکَمُونُ زیرہ۔ الکَمُونُ الخَلْوُ انیسون واحد کَمُونَةٌ۔

المَكْمَنُ چھپنے کی جگہ۔ ج مکامین۔

المُكْمِنُ تمکین۔

الکَمْفَجَةُ دو تارہ سارنگی (دخیل)

کَمِيَةٌ (س) کَمِيَةٌ اندھا ہونا۔ رتو ندی والا ہونا۔

بَصْرَةٌ تاریک ہونا اور پیمانی کو ناپید کرنا۔

النَهَّازُ دن کا غبار والا ہونا۔ الزَجَلُ رنگ

بدلا ہوا ہونا۔ عقل زائل ہونا۔ سارے معانی میں صفت آگہ۔ مَوْتٌ کَمْفَاءٌ ج کَمْفَةٌ۔

الآكْمَةُ اندھا۔ بار زادن دھا۔

تَكْمَتُهُ فِي الْأَرْضِ حیران پھرنا صفت کامیہ

وَمُتَكْمَتُهُ كَمَا جَاءَ فِي ذَهَبِ إِبِلَةَ كَمْتَهِي۔

یعنی نہیں معلوم کہ اس کے اونٹ کہاں گئے۔

مُكْمَتَةُ الْعَيْنَيْنِ جس کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔

كَمَهْلُ الزَّجَلِ کپڑوں کو جمع کرنا اور سفر کے لئے باندھنا۔ عَلَيْنَا حق روکنا۔

الْحَدِيثُ پوشیدہ کرنا۔ معرہ جیسا کرنا۔

الصَّالُ جمع کرنا۔

تَكْمَهْلُ الشَّقِيَّ جمع ہونا۔

اِكْمَهْلُ الزَّجَلِ سمٹ کر بیٹھنا۔ سردی سے

سکڑنا۔

كَمِي كَمِي كَمِيَا وَاكْمِي شَهَادَةٌ

وَعَيْتُهَا: چھپانا کَمِي وَاكْمِي نَفْسُهُ زَرَهُ اور خود سے اپنے آپ کو چھپانا۔ اَكْمِي عَلَى الْأَفْرِ:

پکا ارادہ کرنا۔ اَكْمِي الصَّخَابُ لَفْكَرِ كِ زَرَهُ پوش کو قتل کرنا۔ اَكْمِي الزَّجَلُ مَنَزَلَةٌ: مکان کو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھنا۔

نَكَمِي الشَّقِيَّ چھپانا۔ الشَّقِيَّ: حفاظت کرنا اور چھپانا۔ نَكَمِي النَّفْسَةَ النَّاسِ: گھیر لینا۔

تَكْمِي الْحَيْشِ طحڑے، لادور یا زہر پوش کا قتل کیا جانا۔ الْقَوْمُ: بد ہوش ہونا۔ گھیر لیا جانا۔

اِنْكَمِي پوشیدہ ہونا۔

اِكْمِي اِكْمَاءً: چھپانا۔

الکَمِي: ہمدرد۔ دلادور۔ تمہارا بند۔ زہر پوش۔

بَعِيدٌ كَالْمَاظِنِ ج كَمَاظِفٌ اِكْمَاءً۔

المُشْكَمِي: تمہارا بند۔ دلیر۔

كَمَّ (ن) اَكْمَاوُ كَمُونًا وَاكْمَنَ الشَّقِيَّ: گھر

میں چھپانا اور دھوپ سے چھپانا۔ العِلْمُ وَعَيْتُهُ

فِي نَفْسِهِ: بول میں چھپانا۔

اِكْمَنَ الزَّجَلُ: چھپنا۔ الشَّقِيَّ: سفید ہونا۔

— الْمَرْأَةُ: عورت کا شرم دھیا سے منہ چھپانا۔

— الشَّقِيَّ: چھپانا۔

تَكْمِي تَكْمِيًا: بیشہ گھر میں رہنا (اصل اس کی تَكْمَنُ ہے)

اِسْتَكْمَنَ: چھپنا۔ گھر کی طرف لوٹنا۔

اَلْكَئُ: ہر چیز کی حفاظت اور پوشیدگی۔ منزل۔

گھر۔ ج اَكْمَانٌ وَاكْمَةٌ۔

الکَمَّةُ: کین کلام مرہ۔ ہو یا بھاد۔ ج کَمَانِيْنِ۔

الکَمَّةُ: چیز کی حفاظت اور اس کی پوشیدگی سفیدی۔

الکَمَّةُ: چھپر۔ اَلْكَئُ: کوٹھڑی کے اندر چھوٹی

کوٹھڑی۔ ج کَمَاتٌ وَاكْمَانٌ۔

الکَمَانُ: چیز کی حفاظت اور اس کی پوشیدگی۔ ج اَكْمَةٌ۔

الکَمَانَةُ: ترکش۔ تیر دان۔ ج کَمَانِيْنِ وَاكْمَانَاتٌ۔

کَمَانُونَ الْاَوَّلُ وَاكْمَانُونَ نَسِي: روتی میت

مطابق رمبرو جنوری۔

الکَمَانُونَ وَاكْمَانُونَ: اَلْكَئِي ح۔ ج کَمَانِيْنِ۔ وہ

مفص جس کی محبت سے پرہیز کیا جائے وہ مفص جو

بچہ کر خبر و واقعات کا پتہ لگائے تاکہ ان کو دوسری جگہ نقل کرے۔

الکَمِينِ چھپا ہوا۔

المُسْتَكْمَتَةُ کینہ۔

کَمَبُ (ن) کَمُونًا الزَّجَلُ: سخت ہونا۔ فقیری

کے بعد مال دار ہونا۔

کَمَبُ (ش) کَمَبًا الشَّقِيَّ لِي جَوَابِهِ: جمع کرنا۔

زخیرہ کرنا۔

کَمَيْشٌ (س) کَمَبًا الشَّقِيَّ: ہاتھ کا کام کرنے سے سخت ہونا۔

اَكْمَبُ الشَّقِيَّ وَالْيَدُ: سخت ہونا۔ عَلَيهِ

لِسَانُهُ: زبان رکنا۔ عَلَيهِ بَطْلُهُ: سخت ہونا۔

الکَمَابِ: قاتل۔ علم میر۔

الکَمَبُ: مع۔ کام کرنے سے ہاتھ کی سختی۔

الکَمَابُ: خوش خرم۔

الکَمَيْبُ: خشک درخت۔

الکَمْبَةُ: ظالم غیبت۔

المَكْمَبُ وَاكْمَيْبُ: کھونے والا۔ جس کے ہاتھ عمل کی وجہ سے سخت ہو گئے ہوں۔ حَالِزٌ

وَمَكْمَبٌ وَاكْمَيْبٌ: سخت کمر۔

المَكْمَيْبُ: مردہ۔ قد۔ سخت بدن والا۔

كَمَيْبٌ وَاكْمَيْبٌ: سکرنا۔

زَجَلٌ كَمَيْبٌ وَاكْمَيْبٌ: گھٹے بدن کا مرد مضبوط

قوی مرد۔

الکَمْبَاتُ: گرنے والی ریت۔

وَجْهٌ كَمْبٌ: بد صورت چہرہ۔

زَجَلٌ كَمْبٌ: مرید صورت۔

اَلْكَئِيَّةُ: ٹاک کا موٹا سرا۔

الکَمْبَارُ: ناریل کی رسی۔

تَكْمَبُ الشَّقِيَّ: غلط طہ ہونا۔

الکَمْبُوشُ وَاكْمَبُوشُ: عرق گیر۔ منہ

چھپانے کا پتہ۔ ج کَمْبَانِيَشُ (دخیل)

کَمَتُ (ن) کَمَتَانِي حَلَبٌ: بیٹھ ہونا۔ قوی،

ہوتا۔

کَمَتُ (س) کَمَتَانِي حَلَبٌ: قوت کا گرو اور سخت ہونا۔

اِكْمَتُ الزَّجَلُ: جنسوع کرنا۔ راضی ہونا۔

سِقَاءٌ كَمَيْبٌ: پانی روکنے والی ٹھک جس میں لچکے نہیں۔

الکَمَيْبُ: قوی مضبوط۔

كَنْفَاتٌ كَنْفَاةٌ الْبَيْحِيَّةُ: داڑھی طویل اور کھنی ہوتا۔

رَجُلٌ كَنْفَاةٌ الْبَيْحِيَّةِ وَ كَنْفَاؤُهَا: لمبی داڑھی والا مرد۔

كَنْدٌ (ن) كَنْدُ الْبَيْعَةِ: نعمت کی ناشکری کرتا۔

كَنْدٌ (ن) كَنْدُ الشَّيْءِ: کانا۔

الْكِنْدَةُ: پہاڑ کا ایک ٹکڑا۔

الْكِنْدُ: ناشکرا۔ (مذکورہ مؤنث)

الْكِنْدُودُ: ناشکرا۔ بخیل۔ گنہگار۔ خدا کو ملامت کرنے والا۔ نعمتوں کو بھولنے والا اور مصائب کو شکر کرنے والا (مذکورہ مؤنث) اَرْضٌ كَنْدُودٌ: کچھ نہ لگانے والی زمین۔

الْكِنْدَادُ: ناشکرا۔ بہت کائے والا۔

الْكِنْدَرُ: ایک خاردار درخت کا گونہ۔ مضبوط بناوٹ والا۔ اور جمع کی صورت میں کہا جاتا ہے "فَيْبِيَانٌ كِنْدَارَةٌ" مضبوط بناوٹ کے جو ان۔

الْكِنْدَرَةُ: باز کے بیٹھے کی جگہ۔ سخت و اونچی زمین۔

الْكِنَارُ: بید (دھیل)

الْكِنَارِيُّ: ایک خوش الحان پرندہ ہے جس کے بازو کے اگلے پر لمبے ہوتے ہیں۔ اور اس کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے اور جزائر خلدات میں پایا جاتا ہے۔

الْكِنَارَةُ وَ الْكِنَارَةُ: بربط یا ڈھول یا دفنچ کٹائیوں و کٹاڑوں۔ الْكِنَارَةُ: کتان کے کپڑے کا ٹکڑا۔

كَنْزٌ (ض) كَنْزُ الْمَالِ: جمع کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔ زمین میں دفن کرنا۔ الْوَضْعُ: نیزہ کو زمین میں گاڑنا۔ الشَّيْءُ فِي وَعَاءٍ أَوْ أَرْضٍ: برتن یا زمین میں ہاتھ سے دینا۔ السِّقَاءُ: منگ بھرتا (۔۔۔ کٹاڑا و کٹاڑا) التَّمْرُ: خرما کو سردی کے زمانہ کے لئے ذخیرہ کر کے رکھنا۔

اِكْتَنَزَ: بھرتا۔ جمع ہونا۔ اللَّحْمُ: جمع ہونا اور سخت ہونا۔ الشَّيْءُ فِي الْوِعَاءِ: برتن میں ہاتھ سے دینا۔

تَكْتَنَزُ لَحْمَهُ: گوشت کا اکٹھا ہونا اور سخت ہونا۔ گوشت کا اکٹھا ہونا۔

الْكَنْزُ: جس ہر ذخیرہ کی ہوئی قابل رغبت چیز۔ زمین میں دفن کیا ہوا مال۔ جس میں مال محفوظ رکھا جائے جیسے صندوق وغیرہ۔ ج كَنْزُ: اور کہا جاتا ہے "شَدَّ كَنْزُ الْقَرْبَةِ" یعنی بھریا۔

رَجُلٌ كَنْزٌ اللَّحْمِ وَ كَنْزِيَةٌ وَ مَكْنُوزَةٌ وَ مَكْنُوزَةٌ: بہت اور سخت گوشت والا۔ اور کہا جاتا ہے "كِنَابٌ مَكْنُوزٌ بِالْفَوَائِدِ" فوائد سے بھری ہوئی کتاب۔

الْكَنْزُ: بھجور یا گیسوں ذخیرہ کرنے کا وقت۔ الْكِنَازُ: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا کہا جاتا ہے "جَارِيَةٌ أَوْ نَاقَةٌ كِنَازٌ" بہت اور ٹھوس گوشت والی اونٹنی یا اونٹنی۔ ج كَنْزٌ وَ كِنَازٌ: الْكِنَيْزُ: بھجوریں جو سردی کے زمانہ کیلئے جمع کی جاتیں۔

الْكِنَازُ: مال کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْمَكْنُزُ: جس میں ذخیرہ کیا جائے ج مَكْنَازُ: كَنْسٌ (ن) كَنْسَا وَ كَنْسٌ الْبَيْتِ: گھر میں بھاڑو اور کہا جاتا ہے "كَنْسٌ فِي وَجْهِ فَلَانٍ" اس نے فلاں سے ٹھٹھا کیا "وَمَوْزُوا بِهِمْ فَكَنْسُوهُمْ" وہ ان کے اوپر گزرے اور ان کی جڑ مٹادی۔

كَنْسٌ (ض) كَنْزُ شَاوَ وَ كَنْسٌ الظَّنْبِيُّ: ہرن کا جائے پناہ میں داخل ہونا۔ تَكْنَسُ الرَّجُلُ خِيَمَةً فِي دَاخِلٍ هُوَ: تَكْنَسَتِ الْمَرْأَةُ: عورت کا ہودہ میں داخل ہونا۔

اِكْتَنَسَتِ الظَّنْبَاءُ وَ الْبَقَرُ: ہرنوں کا یا گائے کا جائے پناہ میں داخل ہونا۔ الْكِنَاَسَةُ: کوڑا کرکٹ۔ کوڑا کرکٹ کی جگہ۔ الْكِنَيْسُ: توبہ۔ یہودیوں کی عبادت گاہ۔ الْكِنَيْسَةُ: عِنْدَ النَّصَارَى: گر جا۔ اور نصاریٰ اپنے مذہب کے موٹھین پر بھی بولتے ہیں۔ یہودیوں کی عبادت گاہ۔ ج كِنَايسُ: الْكِنَيْسَةُ: خوبصورت عورت۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے پناہ لینے کی جگہ۔ ج اِكْنَيْسَةُ وَ كُنْيسُ: الْكِنَايسُ: فا۔ ہرن جو اپنی پناہ کی جگہ میں داخل ہو ج كَنْسٌ وَ كُنْيسٌ: "وَالْجَوَارِي

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ الْكِنَايسُ: ہرن کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

پڑنے کے لئے بازوؤں کو سینہ-القَوْم: اکٹھا ہونا
 — الابل: اونٹوں کو قریب کرنا۔
 تَكَتَفَعَ: قلعہ بند ہونا — الِاسْتِزْفَانِ قَيْدِهِ:
 تسمہ سے بازو جانا — یہ: چٹنا۔
 اِكْتَفَعَ: حاضر ہونا۔ قریب ہونا — عَلَيْهِ:
 مریبان ہونا — القَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ فَلَانَ مَتَى:
 قریب ہونا۔
 الكَانِفِ: فا۔ وہ جو قریب ہو۔ جو چھوٹا ہو۔ جو
 بعض بعض سے قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "أَنْفُ
 كَانِفٍ" چھٹی ٹاک "أَسْبَغُ كَانِفٍ" تسمہ سے بندھا
 ہوا قیدی زجل "كَانِفٍ" وہ شخص جو مع اہل و عیال
 کے تمہارے پاس آئے اور تمہارے فضل و
 احسان کا طامع ہو۔
 الكَنِيفِ: سگڑا ہوا۔ راستہ سے ہٹا ہوا۔ ٹوٹے
 ہوئے ہاتھ والا — مِنَ الخُجُوعِ: سخت بھوک۔
 الكُفَاعِ: مرض کی وجہ سے ہاتھ بیروں کا چھوٹا
 ہونا یا کوہاک کٹا ہوا یا حرا ہوا ہے۔
 الاكْتَفِيعِ وَالْمَكْتَفِعِ وَالْمَكْتَفِعِ شَلْ شَدَّ هَاتِهِ
 وَاللَّاحِظِ مِنَ الْأَمْوَالِ: ناخص۔ ادھر اور۔ ج
 كُتِفَ: بَدَّ مُكْتَفَعًا: شل ہاتھ۔
 الْمَكْتَفِعُ: منہ۔ دونوں ہاتھ کٹا ہوا۔
 الْكَنْفَةُ: ایک قسم کی مچھلی۔
 الْكَنْفَةُ: ایک قسم کی دریائی مچھلی۔
 الْكَنْفُورَةُ: بڑے ڈیل ڈول کی اوشنی۔ ج
 كُتَاعِرُ:
 كَنْفٍ (ن) كَنْفًا الشَّيْءِ: حفاظت کرنا۔ اپنے
 میں ملانا — الابلُ وَالْإِبِلُ: اونٹوں کے لئے
 بازو بنانا — عَنَهُ: علیحدہ ہونا — الذَّانِ: گھر
 میں پائٹھنا بنانا — يَدَهُ پانی وغیرہ لینے کے لئے
 ہاتھوں کو ملانا — فَلَانَ عَنِ الْأَمْرِ: روکنا۔
 كَنْفٌ وَأَكْنَفٌ وَكَانِفٌ الزَّجْلُ: بدد کرنا۔
 اعانت کرنا۔
 كَنْفٌ الزَّجْلُ: اہلہ کرنا۔ گھیرنا۔
 اِكْتَفَفَ: اونٹوں کے لئے بازو بنانا (—
 وَتَكَتَفَفَ) القَوْمُ فَلَانًا: اہلہ کرنا۔ وَاكْتَفَفَ
 القَوْمُ: پائٹھنا بنانا۔
 الْكَنْفُ: تاجر یا چرواہے کے سامان رکھنے کا
 برتن۔

الْكَنْفِ: جانب۔ سایہ۔ پرندہ کا بازو۔ ج
 اِكْتَفَفَ: و كَنْفُ الْإِنْسَانِ: پہلو۔ یا دونوں بازو
 اور سینہ۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ فِي كَنْفِ اللَّهِ" تم
 اللہ کے حفظ و امان میں ہو۔ وَالْكَنْفَةُ: گوشہ۔
 الْكَنْفِيْفِ: پردہ۔ پردہ کرنے والا۔ ذُحَالِ:
 جانوروں کا بازو۔ پائٹھنا۔ دروازہ کا پھرج۔ ج كَنْفٌ
 وَكَنْفٌ:
 الْكَانِفَةُ: روکنے والا۔ کہا جاتا ہے زَجْلٌ
 مُكْتَفَفٌ الْيَخِيَةُ: بڑی داڑھی والا مرد۔ دراز
 ریش مرد۔
 الْكَنْفُورَةُ: ٹاک کا بانسہ۔
 زَجْلٌ كَنْفَلِيْلٌ الْيَخِيَةُ: بڑی داڑھی والا مرد۔
 لِيَخِيَةُ كَنْفَلِيْلَةٌ: بڑی داڑھی۔
 كَنْفَكَنَ: گھر میں بیٹھنا۔ کابلی کرنا۔ بھانگنا۔
 الْكَنْفَةُ: زخم۔
 اِكْنَةُ وَاِكْنَةُ الشَّيْءِ: حقیقت کو پہنچنا۔
 الْكَنْةُ: أَصْلُ شَيْءٍ: حقیقت شے۔ جو ہر شے
 غایت۔ الْكَنْةُ: وقت۔
 كَنْيَا كَنْيُوً وَكَنْيَى كَنْيَى كَنْيَا بِلِ الشَّيْءِ عَنَ
 كَنْيَا: کہنا۔ کرنا۔ لفظ بولنا اور اس کے غیر مدلول کا
 ارادہ کرنا۔ مثلاً تم کو "زَيْدًا كَنْيُوَ الزَّمَادُ" اور مراد
 لو کہ زید کریم ہے۔ منظم کو کان اور لفظ کو ممکن
 عتہ کہتے ہیں۔
 كَنْيَى كَنْيَى كَنْيَةٌ وَ كَنْيَةٌ وَ كَنْيَى كَنْيَةٌ وَ
 اَكْنَى اِكْنَاءٌ: زَيْدًا اَبَا فَلَانَ وَ كَنْهًا وَ كَنْهًا بَأَيِّ
 فَلَانَ: کیت رکھنا۔
 تَكْنَى تَكْنِيًا وَ اِكْتَنَى اِكْتِنَاءً بَكْدًا: اپنی
 کیت رکھنا۔ وَ تَكْنَى الزَّجْلُ: مشہور ہونے کیلئے
 اپنی کیت بیان کرنا۔ چھپنا۔
 الْكَنْيَةُ وَالْكَنْيَةُ وَالْكَنْيَةُ وَالْكَنْيَةُ: وہ نام جو
 کسی کی تعظیم یا علامت کیلئے بولا جائے وہ نام جو۔
 اب۔ ابن۔ ام۔ یا بت سے شروع کیا جائے۔ ج كَنْيَى
 وَ كَنْيَى:
 الْكِنْيَاةُ: منہ۔ اور اصطلاح میں کہنا۔ اس کو کہتے
 ہیں کہ شئی معین کو کسی ایسے لفظ سے تعبیر کیا جائے
 جس کی دلالت اس پر صریح نہ ہو اور ایسا کسی غرض
 کے لئے کرتے ہیں۔ مثلاً ساسم معین سے بات کو مبہم
 رکھنا۔

الْكَنْيَى: فاح كَنْفًا وَ كَانُونَ:
 الْكَنْيَى: ہم کیت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ كَنْيَةُ"
 یعنی دونوں کیلئے ایک کیت ہے۔ جیسے تم کہتے ہو
 "هُوَ سَمِيَةٌ" یعنی دونوں ہم نام ہیں۔
 كَهَبٌ (س) وَ كَهَبٌ (ك) كَهَبًا وَ كَهَبُونا:
 سیاہی مائل بھورا ہونا۔ صفت كَاهِبٌ
 وَ اَكْهَبٌ:
 اِكْهَبٌ اِكْهَبِيًا: لَوْنُهُ: رنگ سفید ہونا۔
 اَلْكَهْبَةُ: سیاہی مائل بھورا رنگ۔
 زَجْلٌ اَكْهَبُ اللَّوْنِ: سفید رنگ والا۔
 الْكَهْبَلُ: پستہ۔
 كَهْدٌ (ف) كَهْدًا وَ كَهْدًا اِنَا الْحِمَارُ:
 گدھے کا دوزخا — الْحِمَارُ: گدھے کو دوزخا
 — الزَّجْلُ: تھمتا — فِي الظَّلْبِ: اصرار
 کرنا۔
 اَكْهَدُ: تھمتا — فَلَانًا: تھمتانا۔
 الْكَهْدُ: منہ۔ مشقت۔
 الْكَهْدَاءُ: باندی۔ لونڈی۔ کہا جاتا ہے اَنَانُ
 كَهْدًا اِلَيْهِ ذَيْنِ: تیز رفتار گدھی۔
 الْكَهْدَلُ: جوان موٹی عورت۔ بڑھیا۔ کڑی۔
 نوجوان لڑکی۔
 كَهْرٌ (ف) كَهْرًا فَلَانًا: حقارت سے ترش
 روی سے پیش آنا۔ جھڑکنا۔ تکر کرنا۔ سُردَادًا: کا
 تعلق کرنا — التَهَارُ: دن کا بلند ہونا —
 الزَّجْلُ: ہٹنا — الْحَرُّ: گرمی تیز ہونا۔
 الْكَهْرُورُ وَالْكَهْرُورَةُ: ترش رو جو لوگوں کو
 جھڑکے۔ ج كَهْرَانُ: الْكَهْرُورَةُ: ترش روی۔
 كَهْرَبٌ الشَّيْءِ: قوت کہراہیہ بھرنا۔
 الْكَهْرَبَاءُ وَالْكَهْرَبَاءُ: ایک درخت کا گوند
 ہے کہ اس کو گرڑوا جاتا ہے تو تنگخار وغیرہ کو کھینچ لیتا
 ہے (ذخیل) اصل میں کلہاڑیا تھا۔ یعنی گھاس کو لے
 جانے والا۔ الْكَهْرَبَاءُ: بجلی۔
 الْكَهْرَبَاءُ وَالْكَهْرَبَاءُ: بجلی کی قوت۔
 تَكَهْفٌ الْعَبَلُ: غاروں والا ہونا۔
 اِكْتَهَفَ: غار میں داخل ہونا۔
 اَلْكَهْفُ: گھوہ۔ غار (غار اور کف میں فرق یہ
 ہے کہ غار چھوٹا ہوتا ہے اور کف وسیع) جانے
 بنا۔ ج كَهْفٌ

الکھنکھن۔ یکن۔

الکھنکھنم والکھنکھناتہ۔ یکن۔ عمر سیدہ بڑھا۔
خرفناک مرو۔کھنکھنہ المقفوز: مروی زردہ کاساس سے باتوں
کا گرم کرنا۔ الأسنذ والتبجیہ: کھنکھن کی آواز
نکلتا۔ الشقی: گرم ہوتا۔

تکھنکھنہ: عتہ: ضعیف و کمزور ہوتا۔

الکھنکھنہ: مہ۔ گرمی۔ شیریا اونٹ کی آوازی
تقل۔

الکھنکھانو الکھنکھانہ۔ کمزور۔ خرفناک۔

کھنل (ف) کھولنا و کھنل (ک) کھولنے اور ہجر
مرا ہوتا۔کاھنل مکاھنلہ الزجل: شادی کرتا۔ اور ہجر
مرا ہوتا۔اکھنل: اور ہجر مرا کاہوتا۔ و تکھنل: التبتاب:
پوری اسبابی کاہوتا۔

الکھوللہو الکھوللہو: اور ہجر ن۔

الکھنل: اور ہجر مرا۔ تیس سے پچاس سال تک کی
مرد والا۔ ج کھنلون و کھنل و کھنل و کھنل
کھنل۔الکھنلہ: کھنل کاسونٹ ج کھنلات و کھنلات۔
الکاھل۔ قا۔ گردن کے قریب پیٹھ کا بالائی حصہ۔ جکؤاھل۔ کاھل القوم: قوم کا معتمد۔ کہا جاتا ہے
"فلان شذینذ الکاھل" فلاں صاحب شوکت و

قوت ہے۔

الکھول والکھول۔ مکرزی۔

الکھنلون: بہت پسنے والا۔ مرد فیاض۔

کھنٹ (ف) کھنٹا۔ الشذینذ فلانا: خوف
دلانا۔ آگے بڑھنے سے بزدل بنانا۔کھنم (س) و کھنم (ک) کھناتہ و کھننا کمزور
ہوتا۔ الشقیف: کند ہوتا۔کھنم (ک) و کھنم (ف) کھناتہ و تکھنم
الزجل: لڑائی اور بد سے سستی کرتا۔

اکھنم نصوفہ: نگاہ کمزور ہوتا۔

الکھنم والکھنم: بہت۔ عمر سیدہ جس کے پاس
کوئی مال نہ ہو۔ اور جمع کی صورت میں بھی "قوفم
کھنم" کہا جاتا ہے۔کھنم الزجل: چلنے میں دونوں پاؤں کو قریب
قریب رکھنا۔ چلنے میں غبار اڑانا۔

الکھنمسن۔ شیر۔ بھیڑیا بد صورت پست قدمو۔

الکھنعل۔ ایسا شخص جس کی صحبت کو لوگ پسند نہ
کریں۔کھن (ف) ان کھناتہ و تکھن تکھننا و تکھننا
یفلان: غیب کی باتیں بتانا۔کھن (ک) کھناتہ کھن ہونا یا کمانت طبیعت ثانیہ
ہی جانا۔کاھن مکاھنہ: عطا کرنا۔ ایک دوسرے کو مدد دینا۔
میل ملاب کرتا۔

الکھناتہ: کاہن کا پیشہ۔

الکھنوت: کاہن کا فریضہ۔ کاہن کی تنخواہ۔ کاہن کا
درجہ۔الکاھن۔ قا۔ غیب دانی کا دعویٰ۔ عینذ الیھود و
عبندہ الاوثان: پرہیزت۔ عینذ التصاری: جوکنوت کے درجہ پر ہوج کھناتہ و کھننا الکاھن:
دوسرے کے کام کا مشکل اور کوشش کرنے والا۔کھن یکنھی: چہرے پر بھامیں والا ہوتا۔ گندہ
ذہن ہوتا۔ بزدل و کمزور ہوتا۔

کاھن مکاھناتہ الزجل: باہم تفر کرتا۔

اکھنی۔ اگلیوں کے اطراف کو سانس سے گرمی
پنجانا۔ عن الطعام: بیازرنا۔

اکھناتہ اکھناتہ: تعظیم و اجلال کرتا۔

الاکھنی: چہرے میں بھامیں والا۔ گندہ ذہن۔ بزدل و
کمزور۔ الاکھنی: بے شکاف کا پتھر۔

الاکھنہ: شرفاء۔

کناہن یکنوہ کؤاہ او کناوا عتہ: خوف کرتا۔ بزدل
ہوتا۔اکناہ اکناوا اکناہ: کسی کام پر اچانک پہنچنا اور پھر
خوف سے چھوڑنا۔الکناہ و الکناہ و الکئی و الکینتہ: کمزور دل والا۔
بزدل۔کناہن یکنوہ کؤاوا و اکناہ: بے دست کے کوزہ
سے پیٹا۔

کؤب الشقی: بٹے سے کونا۔

الکؤب: بے دستے کا کوزہ۔ ج اکؤاب۔

الکؤبۃ: فوت شدہ پر حسرت و افسوس۔

الکؤبۃ: شطرنج۔ نزد گندگی۔ ربط۔ دو او تیرہ پینے کا
پلا۔

کؤب الزرع: چارباغ چوں والی ہوتا۔

الکؤب: جوتا۔

الکؤبۃ: فروغ سال۔

تکؤنور۔ الفیاض: زیادہ اور بدست ہوتا۔

الکؤنور: بہت اور بدست۔ بہت اور بدست۔ غبار۔ بہت
بڑا فیاض سردار۔ جنت کی ایک نمبر۔

الکؤنل والکؤنل: جواز کا بیجلا حصہ۔

کناحہ یکنوہ کؤخا و کؤخہ و کناوخہ
مکناوخہ و اکناحہ اکناحہ۔ لڑائی میں غالب آنا۔کناخ الشقی: بالی میں ڈوبنا۔ مٹی میں ڈوبنا۔ کؤخہ:
غالب بنانا۔ کؤخ فلانا: ذلیل کرنا۔ رد کرنا۔ کؤخالزمام التبجیہ: مطلوب کرتا۔ کناوخہ: گھلی گھونچ
کرتا۔ اکناحہ: ہلاک کرتا۔

تکناوخ الزجلان: باہم جنگ و جدال کرتا۔

الکناخ و الکنیح دامن کوہ۔ ج کؤنوح و اکناح:
کہا جاتا ہے "زجع الی کؤنوح" یعنی پہلے اس نے

کچھ بھلائی کی اور پھر باز رہا۔

الکؤخ و الکناخ: جمو تیزی۔ اور اسی سے ہے
کؤخ الضانید: کھیت یا باغ کی جمو تیزی جس کوکاشت کار کھیت کی حفاظت کے لئے اور یا فہن باغ کی
حفاظت کیلئے بنایا کرتے ہیں۔ ج اکؤاخ و کؤنخان و

کینخان و کؤخہ۔

زللۃ کناخ: تاریک رات۔

الکناحینہ عینذ انباب الیسانۃ: دلی کا معتمد۔
حافظ اسرار۔ یہ اصل میں کمنخدا تھا تحریف ہو کر

کناحینہ بن گیا۔ ج کؤاخ (دخیل)۔

کناذہ یکنوذہ کؤا۔ روکنا۔ کناذہ یکنوذہ جان دینا۔
کناذہ یکنوذہ کؤا و مکناذا و مکناذہ: فعل کرنےکے قریب ہونا اور نہ کرنا۔ جیسے "کناذہ یکنوذہ"
بارنے کے قریب ہو مگر مارا نہیں۔ اور یہ افضلمقارہ میں سے ہے اور اس کے خبر کے ساتھ حرف
ان بہت کم آتا ہے اور بھی ارادہ کرنے کے معنی میںبھی آتا ہے اور اسی سے ہے اکناذہ یکنوذہ میں
نے اس کو پوشیدہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اور "عوف منایکنوذہ" یعنی جو ارادہ کیا جائے۔ اور کلو کے عوض
میں "یکنوذہ یکنوذہ" یعنی سنا لیا ہے اور کبھی "کناذہ"زائد ہوتا ہے اور کلام کا صلہ واقع ہوتا ہے جیسے "لنم
یکنوذہ اها" معنی میں لہو ہوا کے۔

کؤوۃ الشقی: جج کرنا اور ایک سو میرہانا۔

اکؤاذا کؤوۃ نذاذہ بوزھاہو نا اور لرزہ زرد ہوتا۔

الکؤوۃ: مٹی وغیرہ کا تودہ۔

المکناذہ: مہ۔ کہا جاتا ہے "لا مہنم لہن ولا
مکناذہ" نہ تو مجھے اس کا قصد ہے اور نہ اس

کُؤْمِسَجٌ وَتَكُؤْمِسَجٌ الزَّجْلُ: کوج ہوتا۔
 الكؤْمِسَج: صرف کوجی پر داڑھی والا۔ کم
 داڑھی والا۔ آہستہ چلنے والا گھوڑا۔ ج کؤا سیج۔
 الكؤْمِسَج: ایک قسم کی مچھلی جس کی ناک آڑھ کی
 طرح ہوتی ہے۔
 كَأَسٌ يَكُؤْشُ كُؤْشَاعَةً: بہت گھبراتا۔
 النجارية: جماع کرنا۔
 كُؤِعٌ (س) كُؤَعًا: بڑے بندوست والا ہوتا۔
 مڑے ہوئے بندوست والا ہوتا۔ صفت اَكُؤِع
 مؤنث كُؤَعَاءٌ كُؤِعُوعٌ۔
 كَاعٌ يَكُؤِعُ كُؤَعًا الكؤب: گرمی کی وجہ سے
 بندوست پر چلنا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے بندوست پر
 چلنا۔
 كُؤَعَةٌ بِالشَّيْفِ: کوار مارنے سے بندوست کا
 ٹیڑھا کرنا۔
 تَكُؤَعَتْ يَدُهُ: بندوست کا ٹیڑھا ہونا۔
 الكأغُ والكؤغُ: انگوٹھے کی جانب بندوست کا
 کنارہ۔ ج اَكُؤَاعُ۔
 الكؤع: مہ۔ بندوست کی ہڈی میں ٹیڑھا پن۔
 ہیر کے انگوٹھے کا دوسری انگلیوں کی طرف بہت
 بھجکاؤ۔
 كَأَفٌ يَكُؤُفُ كُؤُفًا الأديم: چوڑے کے
 کناروں کو مار کرینا۔
 كُؤُفٌ الأديم: کلرے کلرے کرنا۔
 الشئى: علیحدہ کرنا۔ الكأف: حرف کاف
 لکھنا۔ الزجیل: کوفہ میں آنا۔
 تَكُؤُفُ القَوْمِ تَكُؤُفًا وَكُؤُفَانًا عَلَيَّ غَيْرِ
 القِيَاسِ جَمْعٌ ہوتا۔ الزجیل: اہل کوفہ کے مشابہ
 ہونا یا اہل کوفہ کی طرف منسوب ہونا۔
 الكؤففة: عراق کے ایک شہر کا نام۔ ریت کا گول
 سرخ ٹیلہ۔
 الكؤففي: کوفہ کی جانب منسوب۔ اور اسی سے
 ہے خط کوفی۔
 الكؤففيون: کوفہ کے نحوی حضرات۔
 الكؤففة: کؤفھی کا مؤنث۔ سر پر پٹینے کا روٹل
 اور عوام اسے الكؤففة کہتے ہیں۔
 الكؤفان والكؤفان والكؤفان
 والكؤفان: گول تودہ ریت۔ گول چیز۔ عزت و
 شوکت و بلندی و مشقت۔ زکھل ہائیں۔ کلری کا
 جھنڈ۔ اور کہا جاتا ہے "ظَلُّوا فِي كُؤُفَانٍ مِنْ"

الكؤزة: طلع۔ ج كؤز۔
 الكؤارة والكؤارة الكؤارة: شد کی گھبوں
 کیلئے شئی یا مٹی کا بنایا ہوا گھروندہ۔ شد مع موم کے۔
 الكؤارة: عماد۔ پکڑی۔ والكؤارة: تیز دوڑ۔
 المِكُؤُورُ والمِكُؤُورة: عماد۔
 المِكُؤُورِيُّ والمِكُؤُورِيُّ: فرومایہ۔ کینہ۔
 چوڑے بدن کا پتہ۔ قد۔
 كَأَزٌ يَكُؤُزُ كُؤُزًا: کوزے سے پینا۔ الشئى:
 جمع کرنا۔
 تَكُؤُزُ: القَوْمِ: قوم کا اکٹھا ہونا۔
 اِكْتَأَزُ: کوزے سے پینا۔ العاءة: کوزے سے
 لینا۔
 الكؤز: کوزہ۔ ج اَكُؤُازٌ وَكَيْتُزَانٌ وَكُؤُزة:
 (ذیل)
 فِكُؤُزُ الزَّوِاسِ: لمبے سرو والا۔
 كَأَسٌ يَكُؤْشُ كُؤْشًا البعير: ایک ناک کے
 زخمی ہونے کی وجہ سے تین ناکوں پر چلنا فی السبیر:
 آہستہ چلنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَكُؤْشُ فِي السَّبِيرِ"
 فلاں چلنے میں دیر کرتا ہے۔ علی زابہ: سر کے
 بل اٹ پڑنا۔ فی البعير: قیمت گھٹانا۔ کہا جاتا ہے
 "لَا تَكُؤْسِيْنِ يَا فُلَانٌ فِي البعيرِ" اے فلاں میرے
 لئے قیمت مت گھٹا۔ الحجة: کندلی بارنا۔
 كَأَسَهُوُ اَكَأَسَهُ اَكَأَسَةً: بچھاڑنا۔
 كُؤُشُ الشئى عَلَيَّ زابہ: سرگرموں کرنا۔
 تَكُؤُشُ الزَّجْلُ: سرگرم ہونا۔
 تَكَاؤُشٌ لِحُمَةٍ: گوشت کا ذبہ ہونا۔
 الغُشْبُ: گھاس کا گھبان اور بہت ہونا۔
 اِكْتَأَسَهُ عَنْ حَاجَتِهِ: روکنا۔
 الكأس: کأس کا مخفف۔ بمعنی پیالہ۔
 الكؤس: مہ۔ دریا کا ظالم ڈوبنے کے قریب ہونا۔
 الكؤس: ڈھول۔ ایک شاکٹ پیانا جس کو بڑھی
 استعمال کرتے ہیں۔ ج كُؤُوسَاتٌ (ذیل) لُفْعَةٌ
 كُؤُوسَاءٌ: خشک گھاس کا ٹھا۔ آپس میں ایک دوسرے
 پر لپٹا ہوا۔ ج كُؤُوسٌ: ریمانل کؤوش: ریت۔ بہت جما
 ہوا۔
 الكؤسبي مِنَ الخَيْلِ: چھوٹی ناکوں والا گھوڑا۔
 مؤنث كُؤُوسِيَّةٌ۔
 المَكَأَسُ: سانپ کے کندلی مارنے کی جگہ۔
 المِكُؤُوسُ: چکی کے پتھر درست کرنے کی چھینی ج
 مَكَاؤُسُ۔

کے قریب ہوں۔
 الكؤذَنُ والكؤذَلِي: غیر اصل گھوڑا۔ یا مٹی۔
 جُؤزُ: کؤذَن کی جمع کؤا ذین۔
 كُؤُذُ الإزَارِ: ازار کا گار اور ران کے اوپر حصہ
 تک آجاتا۔
 الكأذة: ران کے اوپر کا ابھرا ہوا گوشت۔
 الكأذِي: کیڑہ۔
 كَأَزٌ يَكُؤُزُ كُؤُزًا: العمامة وَنَحْوَهَا عَلَيَّ
 زابہ: سر پر پکڑی باندھنا۔ الأَرْضُ: زمین
 کھودنا۔
 فِي مَشِيَّتِهِ: تیز چلنا۔ العَمَّالُ الكَأزة:
 گھری اٹھانا۔ كَيْتُزَا القُرْشُ ذَبِيه: گھوڑے
 کا دوڑنے میں دم اٹھانا۔
 كُؤُزُ العمامة: سر پر پکڑی باندھنا۔ هُ بچھاڑنا۔
 تیز مار کر گردنا۔ المتاع: بہت رکھنا۔ اللذة
 اللبيلُ عَلَيَّ القَهَارِ: ایک کو دوسرے میں داخل کرنا۔
 كُؤُزَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی کو تیر کرنا
 اور بقل بعض مشعل کرنا۔
 اَكَأَزُ اِكَأزةً عَلَيَّ: ضعیف و کمزور سمجھنا۔ ذیل
 کرنا۔
 تَكُؤُزُ: کرنا۔ بچھاڑنا۔ تیز گردنا۔
 اِكْتَأَزُ اِكْتَأَزًا: عماد باندھنا۔ القُرْشُ:
 دوڑنے میں دم اٹھانا۔ الشئى: بعض کو بعض پر
 ٹپکانا۔ الزجْلُ: تیز چلنا۔ بچھاڑنا۔ کرنا۔ کہا جاتا
 ہے "كُؤُزةً فَاِكْتَأَزُ" یعنی اس نے بچھاڑا وہ گرتا
 الزجْلُ لِلزَّجْلِ: گال دیئے کیلئے آمادہ ہونا۔
 اِسْتَأَزَ اِسْتَأَزَةً: تیز دوڑنا۔ اپنی پیچھے پر گھری
 اٹھانا۔
 الكأز: ایک قسم کا جہاز۔ غلہ سے بھرا ہوا جہاز ج
 كَأَزَاتُ۔
 الكؤز: مہ۔ عماد کا بیج۔ بڑی جماعت۔ اونٹوں یا
 گھوں کا گدہ۔ زیادتی۔ ج اَكُؤُارُ الكؤز: طبیعت۔
 عادت۔ کہا جاتا ہے "لَهُ كُؤُزٌ كُؤُؤِيْمٌ" اس کی طبیعت
 اچھی ہے۔
 الكؤز: مٹی کی انگلی۔ ج اَكُؤُارٌ وَاَكُؤُورُ
 كَيْتُزَانٌ وَكُؤُزَانُ الكؤز: بھڑوں کا چھتا۔ لوہار کی
 ہمٹی۔ (۔ والمكؤون) اونٹ کا جگدہ۔ جگدہ مع
 سلمان۔
 الكَأزة مِنَ الصَّبَابِ: دھوبی کے کپڑوں کی
 گھری۔ غلہ کی ایک مقدار معلوم۔ ج كَأَزَاتُ۔

کوی بکوی کتبا فلانا: لوہے وغیرہ سے داغ دینا۔ کَوَيْتُ الْعُقُوبَ فَلَانًا: بچھو کا ڈنسا۔ ذُکِبَ اِرْتَابًا۔ تم کہتے ہو "کُوَانِي بِعَيْنِي" یعنی اس نے مجھ کو تیز نظر سے دیکھا۔

اَكْوَى اَكْوَاءً۔ زبان سے تکلیف پہنچانا۔ کَاوَى مَكَاوَةً۔ باہم گال گلوچ کرنا۔

اِكْوَى۔ داغ لگانا۔ الرَّجُلُ: اپنے آپ کو داغ دینا۔ اپنی آپ تعریف کرنا ان صفات سے جو فی الحقیقت نہ ہوں۔

اِسْتَكْوَى فَلَانًا: داغ لگانے کو کہنا۔ الرَّجُلُ: داغے جانے کا وقت قریب ہوتا۔ اَلْكَيْفَةُ: کوی کا اسم مرہ۔ داغ لگانے کی جگہ۔

اَلكُوَاءُ۔ اسم مبالغہ۔ بد زبان۔ بہت گلی بکتے والا۔

اَلْمِكْوَاةُ۔ داغ دینے کا لوہا۔ استری کرنے کا لوہا۔ ج مکوا۔

اَلْمِكْوَاةُ وَالْمِكَاوِيَاءُ۔ بکریوں پر نشان لگانے کا آلہ۔

کئی۔ حرف تعلیل ہے۔ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور تقدیر ان کی وجہ سے نصب دیتا ہے جیسے "جَاءَ كَتْنِي يَسْتَلُّ" یعنی آیا تاکہ پوچھے اور ما استفہامیہ پر داخل ہوتا ہے جیسے "كَيْفَ جِئْتُ" یعنی تم کیوں آئے اس صورت میں یہ حرف جر ہوگا۔

وقف کی صورت میں اس کے ساتھ ما متصل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے كَيْفَةً جِيسَا كَلِمَةً كَمَا جَا تَا ہے اور مَاءٍ صَدْرِيہ پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے "يُرْجِي الْفُضَى كَيْفَمَا يَضْرُو وَيَنْفَعُ"۔

اور اُن صَدْرِيہ مقدرہ پر جو با داخل ہوتا ہے جیسے "جِئْتِكَ كَتْنِي تَكْرِيْمِي" میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ تم میرا اکرام کرو۔ اور اکثر اس کا استعمال لام کے بعد ہوتا ہے جیسے جِئْتُ لِكَتْنِي تَكْرِيْمِي۔

كَأَيْ كَيْفًا كَيْفَاغْنَ الْأَمْرَ: اعراض کرنا۔

اَلكَاوُ الْكَتْنِي وَالْكَاةُ وَالْكَيْتَاةُ يَزُولُ۔ كَيْتُ الْوِعَاءِ: برتن بھرنا۔ اَلجَهَّازُ: سلان تیار کرنا اور آسان کرنا۔

كَيْتٌ وَكَيْتٌ۔ اور کبھی كَيْتٌ وَكَيْتٌ مَكْسُورًا کہتے ہیں اور ان سے بات کا ناپہ کیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو "قَالَ فُلَانٌ كَيْتٌ وَكَيْتٌ" یعنی فلاں نے ایسا ایسا کہا۔ اور كَيْتٌ كَيْتٌ بغير واو کے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور ان کا استعمال مکرر ہی ہوتا ہے۔

كَأَخَ يَكْبِيخُ كَيْفَا الشَّيْفِ فِيهِ: تلواریں گال کا اثر کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَأْكَأَخَ فِيهِ الشَّيْفُ" یعنی تلوار نے اس پر کام نہیں کیا۔ اَلكَاةُ اَلْكَاةُ۔ ہلاک کرنا۔

اَلكَيْجُ۔ موٹا (مذکورہ مؤنث) كَيْجُ اَلكَيْجُ: کھردرا۔ موٹا جیسے کہا جاتا ہے يَوْمًا اَيَوْمًا۔ اَلكَيْجُ۔ سختی۔ موٹاپا۔

كَأَذُوهُ يَكْبِيحُهُ كَيْدًا۔ مکر کرنا۔ قریب کرنا۔ مکر سکھانا۔ جگ کرنا۔ برا ارادہ کرنا۔ الرَّئِيذُ: پتھماق کا آگ نکالنا۔ كَأَذُو فُلَانٍ: جیلہ کرنا اور کما جاتا ہے "فُلَانٌ يَكْبِيحُهُ أَمْرًا أَدْرَى مَاهُو" جبکہ وہ پھسلانے اور قریب دے "بَلْفُو الْأَمْرَ الَّذِي كَأَذُو" یعنی جس امر کا وہ ارادہ کرتے تھے اس کو

انہوں نے حاصل کر لیا۔ بِنَفْسِهِ: جان دینا۔ الشَّيْءُ: تیار کرنا۔ الرَّجُلُ: قے کرنا۔ كَائِدَةٌ مَكَائِدَةٌ۔ مکر و قریب کرنا۔ نَكَائِدَةُ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے کے ساتھ مکر کرنا۔

اِكْتَأَدُ اِكْتِيَادًا۔ جیلہ کرنا۔ مکر و قریب کرنا۔ اَلكَيْدُ۔ مہ۔ جیلہ۔ مکر۔ خباث۔ لڑائی۔ قے ج کياد۔ کہا جاتا ہے "عَزَّ اَفْلَهُمُ يَلْقَى كَيْدًا" یعنی اس نے مقابلہ نہیں کیا "وَلَا كَيْدًا وَلَا هَمًّا" یعنی نہ تو سختی کرتا ہوں اور نہ اس کا ارادہ۔ اَلكَيْتَادُ۔ بہت مکر کرنے والا۔

اَلْمَكْيِدَةُ۔ اسم ہے كَأَدَا۔ مکر۔ دھوکا۔ خباث ج مَكَائِدُ۔ کیدی کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد مہلت دینی یا مکاروں کو ان کے فعل پر سزا دینی ہوتی ہے۔

كَأَزَّ يَكْبِيحُ كَيْبًا۔ اَلْفَرَسُ: دوڑنے میں ذم اٹھانا۔ اَكَاوُ عَلَيَّ يَضْرِبُهُ: متوجہ ہونا۔ نَكَايَرًا۔ ایک دوسرے کو مارنا۔

اَلكَيْبَرُ۔ لوباری کبھی۔ ج اَكْبَارٌ وَكَيْبَرَةٌ۔ اَلكَيْبَرُ۔ دوڑنے میں ذم اٹھانے والا۔ كَاَسٌ يَكْبِيحُ كَيْبَاً وَكَيْبَاةُ الْعُلَامِ: زیرک ہونا۔ ذہین ہونا۔ فَلَانًا: دانائی میں غالب آنا۔ اَلعَجَابِيَةُ: جماع کرنا۔

كَيْبَسَةٌ تَكْبِيحُهَا۔ زیرک و ذہین ہونا۔ كَابِيَسَةٌ مَكَابِيَسَةٌ۔ دانائی میں مقابلہ کرنا۔ هُ: بقی البیع۔ بیچنے میں مقابلہ کرنا۔ اَكَاَسٌ اَكَاَسَةٌ وَاَكْبِيحُ اَكْبِيحَا ذَهَبًا وَادَا۔

والا ہونا۔ تَكْبِيحُهَا۔ دانائی ظاہر کرنا۔ بَخْلَفُ دَانِيَا۔ اَلكَيْبَسُ۔ مہ۔ عقل۔ سمجھ۔ دَانِيَا: زیرکی۔ بَخْشُ۔ جماعت۔ کاموں میں سنجیدگی۔

اَلكَيْبَاةُ۔ مہ۔ جو چیز نافع ہو اس کے استخراج کی قدرت۔

اَلكَيْبَسُ۔ تھیلی۔ بُوہ۔ ج اَكْبِيحُ وَكَيْبَسَةٌ جَلِيءٌ جَسْ فِيهِ يَبْطِرُ رَهْتَا۔

اَلكَيْبَسُ۔ دانہ۔ سمجھ دار۔ اچھی سمجھ بوجھ والا۔ ج اَكْبِيحُ وَكَيْبَسِي مَوْنَتُ كَيْبَسَةٍ ج كَيْبَا۔

اَلْمَكْبَسُ۔ سمجھ دار۔ كَيْبَسَانُ۔ بغیر الف لام کے اسم ہے غدر کے لئے۔ جب کوئی بے وفائی کرے تو کہا جاتا ہے ذَكِبَ فُلَانٌ كَيْبَسَانًا۔ اَلْاَكْبَسُ۔ ام تفضیل۔ مَوْنَتُ كَيْبَسِي وَكُوْسِي ج كَيْبَسُ۔

اَلْمَكْبِيحُ مِنَ التَّسَاءُ۔ وہ عورت جو عھد پتوں کو کہنے۔ ج مَكْبِيحَا۔ كَاَسٌ يَكْبِيحُ كَيْبَاً وَكَيْبَاةُ الْعُلَامِ: کس چیز سے عاجز ہونا۔ اَلطَّغَامُ: تھاکھانا۔

مِنَ الطَّغَامِ وَالشَّرَابِ: بہت کھانا پینا۔ الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ کہا جاتا ہے "مَرَّ يَكْبِيحُ" جلدی کرتا ہو اور کراو "كَيْبَسًا عِنْدَهُ مَا شِئْنَا" ہم نے اس کے پاس جو کچھ بھی میں آیا کھایا۔

كَابِيضٌ مَكَابِيضَةٌ الْأَمْرُ اَوِ الْعَمَلُ: مشق کرنا۔ اَلكَيْبِضُ۔ مہ۔ سخت بخیل۔ درشت خو۔ گھٹے ہوئے بدن کا پستہ قد۔

کینض و کینضی و کینضی و کینضی۔ تما
ارتے والا۔ تما کھانے والا اور کسی کا خیال نہ
کرنے والا۔

الکینض والکینض من الرجال: مضبوط
پشمے والا۔

کاع یکنیف کینفا و کینغوعه عنه: بزدل
ہوتا۔ خائف ہوتا۔ صفت کناع و کناعج: ج
کاعہ۔

کاف یکنیف کینفا الشئ: کافا۔
کینف الشئ: کفرے کفرے کرنا۔ کیفیت
معلوم بنانا۔

تکینف: کفرے کفرے ہونا۔ کسی کیفیت
پر ہونا۔

انکاف انکیفا الشئ: کتنا۔

کینف اسم بھم بنی علی الفتح ہے اور اکثر اس کا
استعمال استفہام کے لیے ہوتا ہے جیسے "کینف
زینہ" اور کبھی شرط کے لیے آتا ہے کبھی "ما"
لگاتے ہیں اور کبھی نہیں جیسے کینفما تصنع
أصنع و کینف تصنع أصنع اور کہا جاتا ہے
"کینف لئی بفلان" اس کے جواب میں تم کہتے
ہو کئل الکینف جر کے ساتھ۔ مثل دوسرے
معربات کے اور فتح کے ساتھ اپنی حالت پر باقی
رہتے ہوئے۔

کینفۃ الشئ: صفت۔ حالت ج کینفیات۔
الکینفۃ: کپڑے کا کلاڑا جس سے کرتے کے
دامن کے اگلے حصہ میں بیوند لگائیں۔ ج
کیف۔

الکینکۃ۔ انڈا۔ ج الکینکاجی اور تفسیر
کینکۃ و کینکیکۃ۔

کمال یکنیل کینلا و مکینلا و مکاللا و کئیل
القمح و غیرہ: ٹاپنا اور کبھی دو مفعول کی طرف
شعری ہوتا ہے جیسے "کملت زینہ الطعام" اور
کبھی مفعول اول پر لام داخل ہوتا ہے۔ جیسے
کملت لزینہ الطعام۔ کمال الذراہم: تولنا۔

الشئ بالشئ: اندازہ کرنا اور کہا جاتا ہے "هذا
طعام لا یکنیلنی" یعنی اس پیمانہ کا غلہ میرے
لیے کافی نہیں۔

کمال یکنیل کینلا الزند: ہتھم کا بے
آگ ہونا۔

کئیل القمح: گیسوں ٹاپنا۔ الزجل:
بزدل ہونا۔

کتابلۃ مکابلۃ: دوسرے کے قول یا فعل کی
مانند کرنا یا کرنا۔ گالی دینا اور بڑھ جانا اور کہا جاتا ہے
"کتابلت فلانا" یعنی اس نے میرے لیے اور میں
نے اس کے لئے ٹاپنا۔ دونوں مکابلان کے جائیں
گے "و کتابل الفرس الفرس فی الجری" یعنی
ایک گھوڑے نے دوسرے گھوڑے کا دوڑنے
میں مقابلہ کیا اور کہا جاتا ہے "کتابلناہم صاعا
بصاع" یعنی ہم نے ان کو پورا پورا بدلہ دیا۔

تکئیل الزجل: میدان جنگ میں آخری صف
میں کھڑا ہونا۔

تکابیل الزجلان: گالی اور کینہ میں ایک
دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ ایک کا دوسرے کیلئے ٹاپنا۔
اکتال اکتیلا منہ و علیہ: اپنے لیے ٹاپنا۔
الکال۔ ایک ٹیڑھا سا آلہ ہے جو قلعہ کے
گرانے میں کام آتا ہے۔

الکئیل۔ مہ۔ ٹاپنے کا آلہ۔ چنگاری جو ہتھم
سے گرے۔ ج اکتیال۔

الکینلۃ۔ کال کا اسم مرہ۔ ٹاپنے کا برتن لین بوز
الشام: دودھ کا پیمانہ۔ ج کینلات۔ اور عرب کے
امثال میں سے ہے "أحشفا و مؤء کینلۃ" اس
وقت بولا کرتے ہیں جب کہ دو بری باتوں کو کوئی
جمع کرے۔ مراد یہ کہ بری کجی اور بھی اور پھر اس پر
بری قول بھی۔

الکینلۃ۔ کال کا اسم۔ اور اسم نوع۔
الکینالۃ۔ ٹاپنے کا پیشہ۔ ٹاپنے کی اجرت۔
الکینال۔ وہ شخص جو ٹاپنے کا پیشہ اختیار کرے۔
الکئیل۔ میدان جنگ کی آخرت صف۔ اونچی

زمین۔ بزدل)۔ (والکئیل چنگاری جو ہتھم
سے جھڑے۔

المکئیل والمکینلۃ ج مکابیل
والمکئیل۔ ج مکابیل: جس سے ٹاپا جائے۔
المکئیل والکئیل۔ ٹاپا ہوا۔

الکینیتا و الکیینیا۔ اکیر۔ جس کے متعلق
خیال تھا کہ اس سے سونا چاندی بن جایا کرتا ہے
علم الکیینیا او الکیینیا عند القدماہ: وہ
علم ہے جس میں اس سے بحث کی جائے کہ کس
طرح ایک معدنی چیز کو دوسرے کی طرف خصوصاً
سونے کی طرف تبدیل کر سکتے ہیں اور یا تمام
امراض کیلئے دوا کا استنباط۔ عند
الفتاخرین: وہ علم ہے جس میں اجسام کے
طباع و خواص سے بواسطہ عمل و ترکیب کے بحث
ہو۔ اور نسبت کے وقت کینمی و کینمیوی
کہتے ہیں۔ ج کینمیون و کینمیون۔

کان یکنیف کینفا فلان: فروتنی کرنا۔ عاجزی
ظاہر کرنا۔

اکانہ اکانہ اللہ: عاجز کرنا۔ مطیع کرنا۔
فرمانبردار بنانا۔


اکنان اکتیانا۔ تمکین ہونا اور غم کو چھپانا۔
امشکان۔ کون کے مادہ میں مذکور ہے۔

الکینۃ۔ ہیری۔ ضمانت۔

الکینۃ۔ تختی۔ زلت۔ کما جاتا ہے
"ہات فلان بکینۃ مؤء" یعنی اس نے بری
حالت میں رات گزاری۔

الکینتا۔ کؤنن۔ (دخیل)
کناہ یکنیہ کینفا فلان: منہ سوگھ کر بو
معلوم کرنا۔

الکینۃ۔ وہ شخص جو اپنے حیلہ سے عاجز
آ چکا ہو۔



اللام۔ تین قسمیں ہیں۔

(۱) عامل بعل جرم (۲) عامل بعل جزم (۳) غیر عامل۔

(۱) جارہ۔ اسم ظاہر اور ضمیر واحد منکلم کے ساتھ مکور ہوتا ہے جیسے لَزِيدٌ وَلِيٌّ اور مستغاث يَبَا اور ضمائر غير واحد منکلم کے ساتھ مفتوح جیسے بِاللَّهِ وَلَكَ وَلَنَا وَلَهُ۔

یہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے اسم پر داخل ہونے والی معنوں میں آتا ہے۔

(۱) اختصاص جیسے "الْحَجَّةُ لِلْمُؤْمِنِ" جنت مؤمن کے لیے خاص ہے۔

(۲) استحقاق جیسے "الْعَمْرَةَ لِلَّهِ" عزت کا استحقاق اللہ تعالیٰ ہے۔

(۳) ملکیت جیسے ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اللہ ہی مالک ہے ان چیزوں کا جو آسمان وزمین میں ہیں۔

(۴) تبلیغ جیسے "قُلْتُ لَهُ وَفَسَّرْتُ لَهُ" میں نے اس سے کہہ دیا میں نے اس سے بیان کر دیا۔

(۵) تعدیہ جیسے "مَا أَشَدَّ حُبَّ زَيْدٍ لِعَبْرَةٍ" زید کو عمرو سے کتنی شدید محبت ہے۔

(۶) قسم جیسے "لِلَّهِ لَا فَعْلَنَ هَذَا" قسم اللہ کی میں اس کو ضرور کروں گا۔

(۷) ضرورت جیسے "وَلَيْدَ الْإِنْسَانِ لِيَحْيُوهُ أَبَدِيَّةً" انسان ہمیشہ کی زندگی کیلئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو لام عاقبت اور لام المال بھی کہتے ہیں۔

(۸) تعلیل جیسے "وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِعَدَاوِي مَعِيَّتِي" اور اس دن کہ بارہ چھوڑ کر میں نے اپنی اونٹنی کو ذبح کیا۔

(۹) موافقت الی جیسے "بِأَنَّ زَيْدًا أَوْحَى لَهَا" (۱۰) موافقت علی جیسے "يَخْرُجُونَ لِأَلَدِّ قَابِ"

(۱۱) موافقت نی جیسے "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ

الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ"

(۱۲) بمعنی عند جیسے "كَتَبْتُ لِيَحْمَسَ خَلُونَ" پانچویں تاریخ کے گزرنے پر میں نے اس کو کھانا۔ اور اس کو لام تاریخ بھی کہتے ہیں۔

(۱۳) موافقت بعد جیسے "أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ الشَّمْسِ"

(۱۴) موافقت مع جیسے "فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَانِي وَمَالِكًا لِيَطْلُوبَ الْجَمَاعَ لَمْ نَسْبِ مَعًا"

(۱۵) موافقت من جیسے "سَمِعْتُ لَهُ صُرَاخًا" میں نے اس سے حج سنی۔

(۱۶) موافقت عن جیسے "قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَتْ حَيَاتُ مَا سَبَقُوا نَالِيَةً"

(۱۷) زائدہ جیسے "ضُرِبَتْ لَزِيدٌ" میں نے زید کو مارا اور فعل پر داخل ہونے والا۔ تقدیر ان سے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور ان مع اپنے مدخول کے مصدر مجرور بالآم کی تاویل میں ہوتا ہے اور یہ یا تو تعلیل کے لیے ہوتا ہے جیسے "جِئْتُكَ لِنَعْلَمَ بِنِي" میں تیرے پاس اس لیے آیا کہ تو مجھے تعلیم دے۔ اور یا تاکید نفی کے لیے۔

اور اس صورت میں کان متقی اس سے پہلے آتا ہے اور اس کو لازم محود کہتے ہیں جیسے "مَا كَانَ زَيْدٌ لِيَكُونَ مَلِكًا" زید ہرگز تیری تعظیم کے لیے نہ تھا۔

(۲) لازم جازمہ۔ اور وہ لام امر ہے اور اس کا نام لام طلب بھی ہے اور یہ مکور ہوا کرتا ہے جیسے "يُحْكِمُ اللَّهُ" اور کبھی مفتوح بھی ہوتا ہے اور واؤ اور فا کے بعد اکثر ساکن ہوتا ہے جیسے "فَلَيْسَتْ جَبِيئَةُ لِيُؤْمِنُوا" اور ثم کے بعد بھی کبھی ساکن ہوتا ہے جیسے "فَمَ الْيَقْضُوا"

(۳) غیر عاملہ۔ اور یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور وہ

لام ابتدا ہے جیسے "لَزَيْدٌ قَائِمٌ وَإِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ"

اور لام جواب بعد لَوْ وَلَوْ لَا وَ قَسَمَ جیسے "لَوْ عَدَّتُمْ لَعَدَّتْنَا وَلَوْ لَا زَيْدٌ لَهْلَكْنَا" و "وَاللَّهِ لَزَيْدٌ كَرِيمٌ" اور لام زائدہ جیسے "أَزَاكَ لِنَسَائِمِي"

اور جملہ انہیں غیر عاملہ کے وہ لام ہے جو بعد پر دلالت کرنے کیلئے اسے اشارہ کے ساتھ لاحق ہوتا ہے اور اصلاً یہ ساکن ہوتا ہے جیسے بَلْكَ میں مگر ذلک میں اجتماع ساکن کی وجہ سے کسوا دیا گیا ہے۔

لا۔ تین طرح پر ہے۔

(۱) نافیہ۔ اور یہ چار طرح پر مستعمل ہے۔

(الف) نفی جس کے لئے۔ اس صورت میں اس کا اسم بنی پر فتح ہوتا ہے اور مضاف اور شبہ مضاف کی صورت میں منصوب ہوتا ہے جیسے "لَا زَجَلٌ فِي الدَّارِ" گھر میں کوئی مرد نہیں۔

"وَلَا غَلَامٌ زَجَلٌ حَاضِرٌ" مرد کا کوئی غلام حاضر نہیں۔

(ب) بمعنی لیس۔ اس صورت میں اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور یہ نفی واحد کے لیے ہے جیسے "لَا زَجَلٌ قَائِمًا" مرد قائم نہیں۔ اور لا نفی جس اور لا بمعنی لیس میں فرق یہ ہے کہ جب تم لا زَجَلٌ فِي الدَّارِ کو گے تو اب اس کے بعد بَلْ زَجَلِيْنِ أَوْ زَجَلِ الْكِنَانِ صحیح نہیں ہوگا۔

اسلئے کہ اس مثال میں جس رجال کی نفی کر دی گئی ہے۔ بخلاف لَا زَجَلٌ فِي الدَّارِ کے کہ وہاں بَلْ زَجَلِيْنِ أَوْ زَجَلِ الْكِنَانِ صحیح ہوگا اس لیے کہ لا بمعنی لیس صرف واحد کی نفی کرتا ہے ماسوا کی نہیں۔

(ج) لآ نایہ عطف کے لیے جیسے "جَاءَ زَيْدًا لَا عَمْرُوًّا زَيْدًا كَمَا عَمْرُوًّا"۔
 (د) حرف جواب تفضیل نعم جیسے کوئی پوچھے "أَقَامَ زَيْدٌ" تو تم اس کے جواب میں کہو "لَا"
 (۲) طلب ترک فعل کے لیے اور اس کا نام لا نمی ہے اور یہ صرف مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے جیسے "لَا تَخَفْ" مت ڈر۔
 (۳) زائدہ۔ اور یہ تقویت معنی کیلئے ہوتا ہے حذف کر دینے سے غلط واقع نہیں ہوتا جیسے "مَا مَنَّكَ أَنْ لَا تَقْرُمْ" یعنی "مَا مَنَّكَ أَنْ تَقْرُمْ"۔
 لآت۔ حرف نفی ہے لَيْسَ کا عمل کرتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی معمول ذکر کیا جاتا ہے اور عموماً اسم ہی مفرد ہوا کرتا ہے جیسے نَوْمِ الْبُغَاةِ وَلَا تِ سَاعَةَ مَنَدَمٌ بمعنی لَاتِ السَّاعَةِ سَاعَةَ مَنَدَمٌ یعنی باغی پشیمان ہوئے مگروقت اب پشیمان کا نہیں رہا۔
 الضَّلْبِيْبُ۔ سیدھا۔
 اللَّاوَزْدُ۔ لاجورد۔ ایک مشہور معدنی چیز ہے جو آرمینیا اور فارس کے پہاڑوں میں ہوتا ہے اور عمدہ ہوتا ہے جو صاف شفاف نیلگوں مائل ہے سرخی یا سبزی ہو۔ زیورات میں لگایا جاتا ہے اور بہت مفید چیز ہے۔
 اللَّاوَزْدِي۔ جو لاجورد کے رنگ کا ہو۔
 لَاطَةٌ (ف) لَاطًا۔ اصرار سے کسی کام کے لیے کہنا۔ لَاطَ عَلَيَّ فَلَانَ، سختی کرنا۔ لَاطَةُ بَسْهَجٍ، تیر بارنا۔ لَاطَ فَلَانٌ فِي مَرْوَرِهِ، بغیر ادھر ادھر التفات کے تیر بھاگنا۔ فَلَانًا، دیر تک دیکھتے رہنا جہاں تک کہ نظر سے غائب ہو جائے۔ هُبَّالْعَصَا، لاشخص سے ارا۔
 لَاطَةٌ (ف) لَاطًا۔ غمگین کرنا۔ دھکارنا۔
 مقابلہ کرنا۔ فَلَانًا فِي التَّقَاضِي، تقاضا کرنے میں سختی و اصرار کرنا۔
 لَافٌ (ف) لَافًا الطَّعَامُ، اچھی طرح سے کھانا۔
 الْاَكْمَةُ الْاَلْفَلَةُ اِلَى فَلَانَ، پیغامبری کرنا۔ کہا جاتا ہے "اَلْكَيْبِيُّ اِلَى فَلَانَ" یعنی میرا پیغام اس کو پہنچا دو (اصل الْاَلْفَلَةُ ہے)

اِسْتَلَاكَ لَهٗ، پیغام لے جانا۔
 الْمَلَاكُ وَالْمَلَاكَةُ، پیغام۔ پیغامبری۔
 الْمَلَاكُ وَالْمَلَكُ، فرشتہ جو اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ ج مَلَايَكَةُ وَمَلَايِكُ وَأَمَلَاكُ، اور مفرد مَلَاكُ اور جمع مَلَايِكَةُ مَلَايِكٌ جاتی ہے۔
 لَا لَآ لَا لَآ لَآ لَآ التَّجْمُ اَوْ التَّزْجُ، ستارہ یا بجلی کا چمکانا۔ لَا لَآبِ التَّأَزُّ، آگ کا روشن ہونا۔ بھڑکانا۔
 لَا لَآ الْقَوْرُ بِذَنْبِهِ، جیل کا دم بلانا۔
 لَا لَآبِ التَّقْوَانِجِ، عین کرنے والی عورتوں کا ہاتھوں کو اٹھانا۔ لَا لَآ الذَّمْعُ، آنسو ہونا۔
 تَلَا لَآ التَّجْمُ اَوْ التَّزْجُ اَوْ التَّأَزُّ، بمعنی لَا لَآ وَجْهَهُ، چہرہ کا دکھ اٹھنا۔
 الْمُوَلُّوْ، موتی۔ واحد لُوْلُوَةٌ ج تَلَالِي۔
 الْمُوَلُّوْبِيُّ وَالْمُوَلُّوَانُ، موتی کے رنگ کا۔
 الْمَلَالَةُ، موتی فردی کا پیشہ۔
 الْمَلَالَةُ، بہت زیادہ خوشی۔ لَا لَآ السَّبْوَجِ، چراغ کی روشنی (— وَالْمَلَالُ وَالْمَلَاءُ) موتی فروش۔
 لام (ف) لَامًا و لَامٌ تَلْيِيضًا الزَّجْلُ، کینگی کی طرف نسبت کرنا۔ السَّهْمُ، تیر پر لگانا۔
 الْجُحْرُجُ، زخم باندھنا۔ لَامٌ (ف) لَامًا و لَامٌ تَلْيِيضًا و لَامٌ اِلَّا مَا الشَّيْءُ، درست کرنا۔ جمع کرنا اور باندھنا۔ اَلْاَمُّ الزَّجْلُ، کینے تیروں کا باپ ہونا۔ ایسا کام کرنا جس سے لوگ کینہ کریں۔
 لَوْمٌ (ك) لَوْمًا و مَلَامَةٌ و لَامَةٌ، ذنی الاصل ہونا۔ بخیل ہونا۔ ذلیل ہونا۔ صفت لِيْنِمٌ ج لِيْنَامٌ و لَوْمَاءُ۔
 لَاءٌ م مَلَاءٌ مَمَّةُ الشَّيْءِ، درست کرنا۔ جمع کرنا۔
 لَاءٌ مَمَّةُ الشَّيْءِ، موافقت کرنا۔ لَاءٌ مَمَّةُ بَيْنِ الْقَوْمِ، صلح کرنا۔
 تَلَامٌ و تَلَاءٌ مَمَّةُ الشَّيْءِ الْقَابِسُ، درست ہونا۔
 تَلَامٌ لَامَةٌ اَمَّيْ دَرْعَةٌ، زورہ پستانا۔
 اِنْقَامُ الْقَابِسُ، درست ہونا۔ الشَّيْءُ، ملنا اور چٹ جانا۔ الْجُحْرُجُ، انگوڑ بنا اور اچھا ہونا۔
 الْقَوْمُ، اکٹھا ہونا۔ الشَّيْءَانِ، مشتق ہونا۔
 الْفَرِيْقَانِ، مصالحت کرنا۔
 اِسْتَلَامٌ اِسْتِلَامًا، زورہ پستانا۔ کینوں میں

شاری کرنا۔ اَصْهَارًا، کینوں کو داماد بنانا۔
 الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ، چوٹا۔ الْاَبُ كَيْنَةُ بَابِ وَالْاَبَوَاتُ۔
 اللام۔ ماضی جمع لامۃ بمعنی زورہ۔ شخص۔ ہر سخت چیز۔ کہا جاتا ہے "شَيْءٌ لَامٌ" جمع چیز۔ "سَهْمٌ لَامٌ" پر لگا ہوا تیر۔
 اللبم۔ ج الْاَمُّ و لِيْنَامُ۔ و اللبمۃ۔ مثل۔ مانند اللبم؛ لوگوں کے درمیان اتفاق۔ تلوار شہدۃ اللبمۃ؛ تین سے لے کر دس تک مردوں کی جماعت۔ ج لَبَمَاتُ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَبَمَاتُهُ" وہ اس کی مانند ہے۔
 اللوام۔ حاجت۔
 اللامۃ۔ زورہ۔ ج لَامٌ و لَوْمٌ۔
 اللؤمۃ۔ اوزار کاشت کاری۔ ہر نہیں چیز جس پر نکل کیا جائے۔ دوسروں کے فعل کی نقل کرنے والا۔
 اللبیم۔ کینہ۔ بخیل۔ ذلیفی الاصل۔ بہت زیادہ خریدیں۔ ذلیل۔ ج لِيْنَامٌ و لَوْمَاءُ۔
 الْمَلَامُ وَالْمَلَامُ وَالْمَلَامَةُ، کینوں کی عذر خواہی کرنے والا۔ ندا کے موقع پر نامالام بمعنی یا لبیم کہا جاتا ہے۔
 اللامان واللؤمان واللمان۔ ذنی الطبع؛ اور یہ ندا کے لیے مخصوص ہے۔
 الللام۔ زورہ پسننے والا۔ "زَجْلٌ مَلَامٌ" کینگی کی طرف منسوب مرد۔
 الللیم۔ کینہ۔ کینوں کے پاس آنے جانے والا۔
 لَآئِي بِلَآئِي لَا يَأْتِي، دیر کرنا۔ رکنا۔
 الْاَلَائِي الْاَلَاءُ، سختی میں پڑنا۔
 اِنْقَائِي الْاِنْقَاءُ، دیر کرنا۔ ٹھک گزران والا ہونا۔ مفلس ہونا۔
 اللای واللائی واللواء۔ سختی۔ رنج و تکلیف۔ اللای، ڈھال۔ جنگلی تیل۔ مؤنث لَآءُ ج الْاَلَاءُ۔
 لَبٌ (ن) لَبًا بِالْمَكَانِ، اقامت کرنا۔
 الدَابَّةُ، جانور کے سینہ پر ٹھک باندھنا۔
 الْمُوَزَّةُ، بادام توڑ کر گری نکالنا۔ الزَّجْلُ، سینہ پر مارنا۔

لَبَّ (س) لَبَّيْنَا وَ لَبَّيْنَا وَ لَبَّيْنَا عَهْدُ هُوَا
لَبَّيْ تَلْبِيْبٌ يَحْيِيَانِ يَمَانِ كَمَا يَحْيِيَا مَرْيَمُ مَضَاعِفُ
مِنْ نَارِ هُوَا۔

لَبَّ (ض) س) لَبَّيْنَا وَ لَبَّيْنَا۔ عَهْدُ هُوَا۔ اور
لَبَّيْتُ وَ لَبَّيْتُ تَلْبِيْبٌ يَحْيِيَا مَرْيَمُ مَضَاعِفُ
يَفْعَلُ سے اس کے سوا کوئی نہیں اور حقیقت
میں یہ باب تداخل سے ہے۔

لَبَّيْ تَلْبِيْبِيْنَا الْحَثُّ : دَانِ كَاغُوْدِے دَارِ هُوَا
— فَلَانَا : گریبان پکڑ کر کھینچنا — فِي الْأَمْرِ :
ترو و کرنا۔

الْتَبَّ بِالْمَكَانِ : اقامت کرنا — عَلَيِ
الْأَمْرِ : لازم ہونا — الذَّائِبَةُ : جانور کے سینہ پر
تک باندھنا — السَّرْجُ : زین کا ٹکڑا بنانا —
لَهُ الشُّبْحُ : پیش آنا۔ اور کہا جاتا ہے "ذَاوُ فَلَانٍ
تَلْبِيْبٌ دَارِي" فلاں کا مکان میرے مکان کے
مقابل ہے۔

تَلْبَبْتُ لِلْفِتَالِ : مستعد ہونا۔ کمر کرنا —
الزُّجْلَانِ : ہر ایک کا دوسرے کے گریبان کو پکڑ
کر کھینچنا۔

إِسْتَلَبْتُ زَيْدًا : عقل کی آزمائش کرنا۔
الْمَلَبَّ : قریبی مہربان۔ مَوْنَتْ لَبَّةٌ ج لَبَّيَابُ
زَجَلْتُ لَبَّ عَلَيِ الْأَمْرِ : کام سے لازم رہنے والا
مرواؤم لَبَّةٌ : مہربان ماں۔

الْمَلَبَّ : ہرجے کا خالص۔ خالص عقل۔ جو وہم
وغیرہ کی آمیزش سے پاک ہو یا تیز فہمی۔ اسلئے
لَبَّ بِرِ عَقْلِ كَا طَلِقَ هُوَا كَمَا طَلِقَ
ضروری نہیں۔ الْمَلَبَّ : دل۔ زہر۔ ج لَبَّيَابُ
وَأَلْبُ وَ الْبَلْبُ (آخری جمع صرف اشعار میں آتی
ہے) الْمَلَبَّ مِنَ الْجَوْزِ وَ اللَّوْزِ وَ نَحْوِهِ ذَلِكَ :
بادام اخروٹ وغیرہ کی گری۔ ج لَبَّيْبُ۔

الْمَلَبَّةُ : لَبَّ كَا سَمِ مَرَّةٍ۔ سینہ پر ہار پڑنے کی
جگہ۔ شوہر کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرنے
والی عورت۔ ج لَبَّيَاتُ۔

الْمَلَبَّبُ : مہ۔ سینہ پر ہار پڑنے کی جگہ۔ سینہ کا
اوپر کا حصہ۔ باریک ریت۔ گھوڑے وغیرہ کے
سینہ پر باندھنے کا ٹکڑا۔ ج الْبَابُ۔ اور کہا جاتا
ہے "فَلَانٌ لِي لَبَّيْبٌ رَجِيحِي" فلاں آسودہ حال
ہے۔ الْمَلَبَّبُ : دل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رَجِيحِي"

الْمَلَبَّبُ : وہ کشادہ دل ہے۔

الْمَلَبَّبُ : تھوڑی گھاس۔ کہا جاتا ہے "لَبَّيْبُ
لَبَّيْبٌ" کوئی حرج نہیں۔

الْمَلَبَّبُ : ہرجے کا خالص۔ برگزیدہ۔ کہا جاتا ہے
"فَلَانٌ لَبَّيْبٌ قَوْمِهِ وَ هُمْ لَبَّيْبٌ قَوْمِهِمْ وَ هُوَ
لَبَّيْبٌ قَوْمِهَا" فلاں اپنی قوم کا برگزیدہ ہے
"حَسَبْتُ لَبَّيْبًا وَ عَيْشُ لَبَّيْبٌ" خالص حسب۔
خالص زندگی۔ لَبَّيْبُ الْجَوْزِ وَ نَحْوِهِ : اخروٹ
وغیرہ کی گری۔

الْمَلَبَّبَةُ : لباس جو لڑائی کے وقت کپڑوں پر پہنا
جائے۔

الْمَلَبَّبُ : عھد۔ ج الْبَيَاتُ مَوْنَتْ لَبَّيْبَةُ ج
لَبَّيْبَاتُ وَ لَبَّيْبَاتُ : زَجَلْتُ لَبَّيْبٌ : کام سے چٹے
رہنے والا۔ سستی نہ کرنے والا لَبَّيْبَاتُ الْبَلْبُ : دل
کی چند رگوں کا نام جو مرکز لطف و مہربانی میں کہا جاتا
ہے "أَنَا حَيْكُكَ مِنْ بَيَاتِ الْبَلْبِي" میں تجھ سے ہے
دل سے محبت کرتا ہوں۔ اور الْبَلْبُ کی جمع الْبَلْبُ
اور تصغیر لَبَّيْبُ۔

التَّلْبِيْبُ : مہ۔ گریبان ج تَلْبِيْبُ التَّلْبِيْبُ :
بکلف عقل کا ظہار۔

الْأَلْبُوبُ : ہیر کی محضلی۔ کہا جاتا ہے "لَبَّيْبُكَ"
میں حاضر ہوں۔ میں موجود ہوں میں تمہاری
طاعت پر قائم ہوں۔ تشبیہ تاکید کے لیے ہے اور
نصب مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔ اور اس
کی اصل أَلْبُ لَبَّيْبٌ لَبَّيْبَاتُ عَدُوِّ الْبَابِ هُوَا۔

الْمَلْبُوبُ : جودت عقل سے متصف۔
الْمَلْبُوبُ : سینہ پر ہار پڑنے کی جگہ۔
لَبَّيْبَةُ : بغیر آستینوں کی ٹیٹھی۔

لَبَّيْبًا (ف) لَبَّيْنَا الشَّاةُ : بکری کی بیوی دوہنا۔
لَبَّيَاتُ الْأَمِّ وَ لَدَهَا : ماں کا سینہ کو بیوی پانا۔ لَبَّيْنَا
الزُّرْعُ : پہلی بار پالی بنا۔ وَ الْبَيَاتُ الْقَوْمُ : بیوی
کھانا — الْمَلَبَّيْبُ : بیوی تیا کرنا الْبَيَاتُ الشَّاةُ :
بیوی اتارنا — الْجَدْيُ : بکری کے بچے کا خو

بیوی بی لیمان۔ أَلْبَيَا الْقَوْمُ : بہت بیوی والا ہونا —
الْفَصِيْلُ : بیوی پینے کے لیے تھن سے لگارتا۔
لَبَّيَاتُ تَلْبِيْبَةُ : الشَّاةُ : بکری کے تھن میں بیوی
اترنا۔ صفت مُلَبَّبِيٌّ : لَبَّيْنَا : الْحَيْجُ : بَيْتِكَ اللَّهُمَّ
لَبَّيْنَا : کما (ما) من لَبَّيْنَا يَلْبِيْنَا تَامِسُ يَابِيْنَا : اور

اصل میں مہر نہیں بلکہ یا ہے)

الْبَيَاتُ : الشَّاةُ : بکری سے بیوی دوہنا —
الْبَيَاتُ : بیوی پینا (— وَ اسْتَلْبَيْتُ الْجَدْيُ
الشَّاةُ : بیوی پینا۔

الْبَيَاتُ : بیوی۔ کھیں۔
الْبَيَاتُ وَ الْبَيَاتَةُ وَ الْبَيَاتَةُ وَ الْمَبَّوْءَةُ وَ الْمَبَّوْءَةُ وَ الْمَبَّوْءَةُ
وَ الْمَبَّوْءَةُ وَ الْمَبَّوْءَةُ وَ الْمَبَّوْءَةُ وَ الْمَبَّوْءَةُ
لَبَّيَاتُ وَ لَبَّيَاتُ وَ لَبَّيَاتُ۔

لَبَّيْتُ (ن) لَبَّيْنَا بَيْدَةً : ہاتھ اٹھنا۔ مروڑنا —
فَلَانًا : کسی کے سینہ 'چیت' کمر پر لاٹھی سے
مارنا۔

لَبَّيْتُ (س) لَبَّيْنَا وَ لَبَّيْنَا وَ لَبَّيْنَا وَ لَبَّيْنَا وَ لَبَّيْنَا
لَبَّيْنَا وَ لَبَّيْنَا وَ لَبَّيْنَا : بِالْمَكَانِ : ٹھہرنا۔
اقامت کرنا اور کہا جاتا ہے "مَا لَبَّيْتُ أَنْ فَعَلْتُ
كَذَا" اس نے ایسا کرنے میں تاخیر نہیں کی۔

لَبَّيْتُ وَ الْبَلْبُ فَلَانًا فِي الْمَكَانِ : ٹھہرنا۔
مقیم کرنا۔

تَلْبَبْتُ بِالْمَكَانِ : ٹھہرنا۔
إِسْتَلْبَبْتُ : ست پانا۔ ست سمجھنا۔
الْأَلْبُوبُ وَ الْمَلَبَّبُ بِالْمَكَانِ : اقامت
گزیں۔ ٹھہرنے والا۔

الْمَلَبَّبَةُ : تھوڑی دیر۔
الْمَلَبَّبَةُ : مہ۔ مختلف قبائل کی جماعت۔ ج
لَبَّيَاتُ۔

لَبَّيْحُ (ن) لَبَّيْحًا بِه الْأَرْضُ : زمین پر ٹیک دینا
اور چھوڑ دینا۔ اور کہا جاتا ہے "لَبَّيْحُ بِالزُّجْلِ أَوْ
الْبَيْعِ" یعنی مرض یا حاکم کی وجہ سے گر پڑنا۔
صفت لَبَّيْحٌ : ہوا بے قصاصا : لاٹھی سے مارنا۔

الْمَلَبَّحَةُ وَ الْمَلَبَّحَةُ : شارخ دار لوبا جس سے
بھیرے کو شکار کیا جاتا ہے۔ ج لَبَّيْحٌ وَ لَبَّيْحٌ۔
الْمَلَبَّحُ : بیوقوف۔ کزور عقل والا۔
لَبَّيْحُ (س) لَبَّيْحًا وَ لَبَّيْحًا وَ لَبَّيْحًا : بڑھا
ہونا۔

الْمَلَبَّحُ : بوڑھا۔ عمر رسیدہ۔ ہمداری۔
لَبَّيْحُ (ف) لَبَّيْنَا فَلَانًا : مارنا۔ گلی دینا۔ قتل
کرنا — الزُّجْلُ : پکڑنے کے لیے چیل کرنا۔
الشُّبْحُ : لیمان — لَبَّيْنَا : حَسَدُهُ : بہت گوشت
والا ہونا۔ صفت لَبَّيْحٌ۔

المَلْبَس: رات۔

المَلْبَسُ مَبْعٌ — عِنْدَ الْمُؤَلَّفِيْنَ: بادام وغیرہ جس پر شکر چڑھا لی گئی ہو۔

لَبَطَ (ض) لَبَطًا بِفُلَانٍ الْأَرْضَ: زمین پر پگ رینا۔ پھاڑ رینا۔ لَبَطَ بِهِ: گرایا جانا۔ کسی مرض یا کسی اچانک معاملہ کے پیش آجانے کی وجہ سے گر پڑنا۔ زکام والا ہونا۔

لَبَطَ (ض) لَبَطًا وَتَلَبَطَ وَالتَّبَطَ: التَّبَطُّ وَالْبَهْطُ وَالْبَهْلُ: اونٹ یا چمچ کا زمین پر لات مارنا، دوڑنے میں لات پکھانا۔ التَّبَطُّ وَتَلَبَطَ الرَّجُلُ: زمین پر لوٹنا۔ مضطرب ہونا۔ متحیر ہونا — فِى الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔ جلد کرنا۔

الْمَبْطَةُ: لَبَطَ كَالسَّمِ مَرَّةً — زکام۔

الْمَبْطَةُ: التَّبِطُ كَالسَّمِ — لنگڑے کی دوڑ۔

الْأَلْبِطُ: کمائیس۔ واحد لَبَطٌ۔

المَلْبُوطُ: مَعْرَجُ الْجُلِّ مَلْبُوطًا بِهِ: اپنے کلام میں متحیر مرو۔

الْمَبْعُ: رائیگاں۔

لَبِقٌ (ن) لَبِقًا وَلَبِقٌ الشَّيْءُ: نرم کرنا۔

لَبِقٌ (س) لَبِقًا وَلَبِقٌ (ك) التَّبَاقَةُ: حاذق ہونا۔

زَبِنٌ ہونا۔ نرم اخلاق والا ہونا۔ لَبِقٌ وَ لَبِقٌ

الشُّوْبُ وَنَحْوَهُ بِفُلَانٍ: چیکنا۔

اللبق واللبق: نرم اخلاق والا۔ پاکیزہ اخلاق

والا۔ ذی۔ ذہین۔ مؤنث لَبِقَةٌ وَ لَبِقِيَّةٌ۔

لَبِكَ (ن) لَبِكًا وَ لَبِكَ الْأَمْرُ وَالشَّيْءُ لَمَانَ

— الثَّرِيْدُ: کھانے کیلئے جمع کرنا — الْقَوْمُ بَيْنَ

الشَّاءِ: بکریوں کو مار دینا۔

لَبِكَ (س) لَبِكًا وَ التَّبِكَ وَ تَلَبَكَ الْأَمْرُ:

گڑ بڑ ہونا۔ مشتہر ہونا۔

أَلْبِكَ: جھل کلامی کرنا۔ گفتگو میں غلطی کرنا۔

التَّبِكَ وَ التَّبِكَ: مخلوط چیز۔ اَمْرٌ لَبِكٌ وَ

لَبِكٌ: گڑ بڑ معاملہ۔ مشتہر معاملہ۔

اللَّبِكَةُ: ٹرید کا ایک قسم۔ ٹرید کا ایک حصہ۔

اللباكة واللبكة: جماعت۔ کہا جاتا ہے

”وَقَعَ فِى لَبِكَةٍ وَ لَبِكَةٍ“ یعنی وہ گڑ بڑ میں پڑ گیا۔

لَبَيْتٌ الْمَرْأَةُ بِوَلَدِهَا: عورت کا بچے سے

لاڑپار کرنا۔ مریبان ہونا — الشَّاءُ بِوَلَدِهَا بَعْدَ

الْوَضْعِ: بکری کا بچے کو جنمنے کے بعد ہونٹوں سے

چاٹنا اور مریبان ہونا۔ لَبَيْتَ الْقَوْمَ: قوم کا متفرق و

پرآگندہ ہونا۔

الْمَلْبَبُ وَ الْمَلْبَبُ: اپنے لوگوں سے مریابی

کرنے والا۔ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک

کرنے والا۔

لَبَابُ الْعَنَمِ: بکریوں کا شور اور ان کی آواز۔

الْمَلْبَابُ: عشق۔ چمپہ (ایک پھول دار تیل جو

جھاڑیوں پر پھلتی ہے، اس کا پتہ لوبیا کے پتے کے

مشابہ ہوتا ہے)

لَبِم (س) لَبِمًا: کندھوں کا مختلف ہونا۔

لَبِنٌ (ن) لَبِنًا الرَّجُلُ: دودھ پلانا۔ فَلَانًا

بِالْعَصَاءِ: سخت لاٹھی مارنا (لَبِنٌ (ض) لَبِنًا)

الرَّجُلُ: بہت کھانا۔

لَبِنٌ (س) لَبِنًا الرَّجُلُ: نکلیہ کی وجہ سے

درد گردن والا ہونا — الشَّاءُ: بکری کا دودھ والی

ہونا۔

الْبَنُّ الْقَوْمُ: بہت دودھ والی ہونا۔ صفت

لَا يَبْتَوْنَ وَ مَلْبُونٌ — التَّبَاقَةُ: تھن میں دودھ

آرتنا — الرَّجُلُ: تَلْبِيْنُهُ: پانا (دیکھئے تَلْبِيْنُهُ)

لَبِنٌ: اینٹ پانا۔ فیصلے کرنے کے لیے مجلس بنانا

— الشَّيْءُ: چوکو رہنا۔

تَلْبِنٌ الرَّجُلُ: دیر کرنا۔

إِتْبِنٌ: اپنا دودھ چوسنا۔

إِسْتَلْبِنٌ: دودھ طلب کرنا۔

الْبَنُّ: مہس۔ دودھ ج اُتبان۔ تھوڑے سے کو

لَبِنَةٌ کہتے ہیں۔ لَبِنُ الشَّجَرَةِ: درخت کا دودھ۔

الْمَلْبِنُ وَالْمَلْبِنُ وَالْمَلْبِنُ: کچی اینٹیں۔ واحد لَبِنَةٌ۔

المَلْبِنُ وَالْمَلْبُونُ: دودھ کا خواہش مند۔ دودھ

پینے والا۔ لَبِنٌ الْقَمِيصِ: کرتے کی کٹی۔ مَحْلِيْسٌ

لَبِنٌ: فیصلے کی مجلس۔ المَلْبِنَةُ وَ المَلْبِنَةُ: دودھ والی۔

المَلْبَانُ: سینہ یا دونوں پستان کا درمیان اور اکثر

استعمال گھوڑے وغیرہ کے سینے کیلئے ہوتا ہے۔

المَلْبَانُ: دودھ پلانا۔ کہا جاتا ہے هُوَ اخْوَةٌ يَلْبَانِ

أَقْبَهُ وَأَرْلَبْتَنِ أَقْبَهُ مِمَّنْ كَمَا جَاءَا۔

المَلْبَانُ: صنوبر۔ کندر۔ ایک قسم کا گوند جو دھونی

کے کام میں آتا ہے۔

المَلْبَانَةُ: حاجت۔ ضرورت۔ ج لَبَانَاتُ وَ لَبَانِ

لَبْنَانِ: ملک شام کا ایک پہاڑ جس کی چوٹی پر بیش

برف رہتی ہے۔

الْمَلْبَانُ: فا۔ دودھ والا۔ زیادہ دودھ والا۔ دودھ

پلانے والا۔ مؤنث لَابِنَةٌ ج لَابِنَاتٌ لَوَابِنُ

الْمَوَابِنُ: تھن۔

الْمَلْبُونُ وَ الْمَلْبُونَةُ: دودھ والی۔ ج لَبَانٌ وَ لَبِنٌ وَ

لَبِنٌ وَ لَبِنٌ وَ لَبَانِینُ: کہا جاتا ہے ”مَحْمٌ لَبِنٌ

عَمِيْكٌ“ تمہاری بکریوں میں کتنی دودھ والی

ہیں۔

الْمَلْبِيْنُ: دودھ سے پرورش پایا ہوا۔

دودھار۔ مؤنث لَبِيْنَةٌ کرتے کی کٹی۔

الْمَلْبِيْنِيُّ: ایک درخت ہے جس سے شد کی

مانند دودھ نکلتا ہے اور کبھی اس سے دھونی کا کام

لیا جاتا ہے عَسَلُ الْمَلْبِيْنِيِّ: لَبْنِيُّ درخت کا

دودھ۔

الْمَلْبَانُ وَ الْمَلْبَانُ: اینٹیں بنانے والا۔

التَّلْبِيْنُ وَ التَّلْبِيْنَةُ: بھوسی دودھ شد سے بنا

ہوا حریرہ۔

المَلْبِنُ: دودھ صاف کرنے کا چھتھا۔ دودھ

دوبنے کا برتن۔ اینٹ بنانے کا سانچہ۔ کچی اینٹوں کو

جس میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے

جائیں۔

الْمَلْبُونُ: دودھ سے پرورش پایا ہوا۔ دودھ

پینے سے جس کو نشہ جیسا ہو۔

الجَلْبِنَةُ: چمچ۔

عُشْبٌ مَلْبِنَةٌ: زیادہ دودھ والی گھاس۔

المَلْبُوَّةُ وَ المَلْبُوَّةُ: شیرنی اس کو لَبُوَّةٌ اور لَبَاءَةٌ

اور لَبَاءَةٌ بھی کہا جاتا ہے (لَبَا کے مادہ میں ذکر ہو چکا

ہے)

لَبِي تَلْبِي لَبِيَا مِّنَ الطَّعَامِ: بہت کھانا۔

لَبِي تَلْبِيَّةُ الرَّجُلُ: جواب دینا۔ لَبِيْتُكَ کہنا۔ کہا

جاتا ہے ”يَتَلَبَّوْنَ الْمَلْبِيَّةَةَ“ ان کے درمیان ایسی

مواافت ہے کہ ان میں سے کوئی اپنے راز کو

دوسرے سے نہیں چھپاتا۔

لَتَّ (ن) لَتًّا: الشَّقِيُّ: کوشا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔

پینا۔ باندھنا — السَّوْفِيُّ: ستو کو پانی سے تر

کرنا۔ گھی ملانا — المَاءُ التِّيَابُ وَ غَيْرُهَا: تر

کرنا۔ صفت لَاتٌ۔

لَتَّ فَلَانٌ بِفُلَانٍ: چٹھنا۔

الَّتِ الطَّائِرُ: پرندہ کا اپنے سر کو پروں میں چھپاتا۔
 الأَثَّ والأَثَّ: زمانہ جاہلیت کے ایک بت کا نام۔
 اللَّثَّ: مس۔ کھلاڑی۔ بڑا کھلاڑی۔
 اللَّثَاتُ: درخت کی چھال جو باریک کی جائے۔
 کہا جاتا ہے "مَا أَنْقَى بَيْتِي الْمَرْضُ إِلَّا لَثَاتًا"
 مرض نے مجھ میں سوائے خشک کھال کے کچھ نہیں چھوڑا۔
 لَثًا (ف) لَثًا: فلَانًا فِي صَدْرِهِ: دکھانا۔ کہا جاتا ہے "لَثَاتٌ بِهِ أُمَّهُ" اس کی ماں نے اس کو جتا —
 ۰ ۰ بَحَجْرٍ: پتھر مارنا۔ لَثًا إِلَيْهِ بَعِيْهِ: گھورنا۔ تیز نظر سے دیکھنا — الشَّيْءُ: کم کرنا —
 الْجَارِيَةِ: جماع کرنا۔ لَثًا: گوز کرنا۔
 اللَّيْثِيُّ: بیٹھاپنی جگہ پر رہنے والا۔
 لَثَبَ (ن) لَثَبًا وَ لَثُوبًا: بچکانا — فِيهِ: ثابت رہنا — فِي مَنَحَرِ النَّاقَةِ: بھالامارنا —
 وَ لَثَبَ السَّرْحَ عَلَى الْفَرْسِ: زمین کسنا۔ اور کہا جاتا ہے "لَثَبَ عَلَيْهِ نُوبَةَ" جب کہ کپڑا اپنے اور آرتارنا جائے۔
 أَلْتَبَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: واجب کرنا۔
 تَلَاثَبَ الْقَوْمُ: قوم کا باہم ملنا — بِالرِّمَاحِ: ایک دوسرے کو تیزہ مارنا۔
 اَلْتَبَّ الْقَوْبُ: کپڑا پہننا۔
 اللَّاتِبُ: چپکنے والا۔ ثابت رہنے والا۔
 المَلْتَبُ: بیٹھ گھر میں رہنے والا۔ گوشہ نشین۔
 المَلَاتِبُ: پرانے کپڑے۔
 لَتَحَهُ (ف) لَتَحًا: کٹکری مار کر چہرہ یا جسم کو زخمی کرنا — ۰ بَصْرَهُ: نگاہ ڈالنا — فلَانًا: سب کچھ لے لینا کچھ باقی نہ چھوڑنا — الْجَارِيَةِ: جماع کرنا۔ لَتَحَهُ بِيَدِهِ: ہاتھ سے مارنا۔
 لَتَعَ (س) لَتَحًا: بھوکا ہونا۔ صفت لَتَحَانِ مؤنث لَتَحِيٌّ۔
 رَجُلٌ لَتَعَ وَ لَاتَعَ وَ لَتَاحَ وَ لَتَحَهُ: جلاک عمل مندج لَتَاح۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَلْتَحَ شِعْرًا وَ مَنَةً" وہ بہ نسبت اس کے معانی پر زیادہ قابو یافتہ ہے۔
 لَتَحَهُ (ف) لَتَحًا: آلودہ کرنا — الشَّيْءُ:

پھاڑنا۔
 تَلَتَّحَ الشَّيْءُ: آلودہ ہونا۔
 لَتَدْرُسُنْ لَتَدًا: فلَانًا يَحِيْدُهُ: مکارنا۔
 لَتَزُوهُ (ض) لَتَزُوًا: مکار کر دینا کرنا۔
 لَتَعَ (ف) لَتَعَ: فلَانًا: ۰ ۰ — ۰ بِيَدِهِ: ہاتھ سے مارنا۔
 اللَّثَلَتَةُ: جھوٹی قسم۔
 لَتَمَهُ (ض) لَتَمًا: مارنا۔ تھپنے پر تیزہ مارنا۔ لَتَمَ السَّهْمُ: تیر پھینکانا — ۰ بَسْمُهُ: تیر مارنا —
 فَلَانٌ يَشْفُرُهُ فِي لَتَةِ بَعِيْرِهِ: اونٹ کے پیر پر چھری چلانا۔ لَتَمَتِ الْجَحَاةُ وَ رَجُلٌ الْمَاضِي: چپروں کا چلنے والے کے پیر کو زخمی کرنا۔
 اللَّتْمُ: زخم۔
 اللَّيْنُ: بیٹھا۔
 اللَّيْتَةُ: سی۔
 اللَّيْنِيُّ وَ اللَّيْنُ: الذَّيْنُ کا مؤنث ج اللَّائِيْنَ وَ اللَّاتِ وَ اللَّوَاتِي وَ اللَّوَاتِ وَ اللَّوَاتِ وَ اللَّوَاتِ وَ اللَّوَاتِ: تشدید نون کے ساتھ۔ وَ اللَّتَائِفِ نون کے حالت رَفْعِ میں وَ اللَّتْنِ حالت نَهْضِ و جَرِي میں۔
 اللَّيْنِيُّ وَ اللَّيْنِيَّةُ: اللَّيْنِي کی تصغیر اور تشبیہ کی صورت میں اللَّيْنِيَّتَانِ وَ اللَّيْنِيَّتَانِ اور جمع کیلئے اللَّيْنِيَّاتِ وَ اللَّيْنِيَّاتِ: کہا جاتا ہے "وَقَعَ فِي اللَّيْنِيَّةِ وَ اللَّيْنِيَّةِ" یعنی بڑی بڑی مختلف مصیبتوں میں بڑ گیا۔ "وَ بَعْدَ اللَّيْنِيَّةِ وَ اللَّيْنِيَّةِ صَارَ كَذَا" یعنی بہت جھگڑوں کے بعد ایسا ہوا۔
 لَتَّ (ن) لَتًا وَ اللَّتَّ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا — اَلْمَطْرُ: چند روز تک برسا — عَلَيْهِ: اصرار کرنا لَتَّ الشَّجَرُ: درخت کو تری پہنچنا۔
 اللَّثَّ: مس۔ تری۔
 لَثَا (ف) لَثًا: الكَلْبُ: کتے کا منہ ڈالنا۔
 اللَّثَا: وہ چیز جو درخت سے چپکے یا بے۔
 لَتَدْرُسُنْ (ض) لَتَدًا: المَتَاعُ: سامان بہتہ رکھنا۔
 اللَّثَدَةُ: جماعت جو میٹھ ہو اور کوچ نہ کرے۔
 لَتَطَ (ض) لَتَطًا: فلَانًا: آہستہ آہستہ مارنا۔ ۰: آہستہ سے پھینکانا۔ آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا۔
 اللَّثَعَةُ: دانت کی جڑوں سے ہونٹ کا کالا ہوا

حصہ۔
 اللَّثَعُ: بھلا۔ مؤنث لَثَعَاءُ ج لَثَعُ۔
 لَثَعَ (س) لَثَعًا وَ لَثَعًا: بھلا پن ہونا۔ صفت اللَّثَعُ: مؤنث لَثَعَاءُ ج لَثَعُ۔
 اللَّثَعَةُ: سین کی جگہ میں ثاء۔ راء کی جگہ میں عین یا لام وغیرہ ہونا۔ بھلا پن۔
 اللَّثَعَةُ: منہ۔
 لَثِقَ (س) لَثَقًا: اليَوْمُ: بند ہو والا۔ اور نمناک ہونا — اَلْمُسَاوِي: کچھ میں پڑنا — تِيَابَهُ: کپڑوں کا تڑ ہونا — الطَّائِرُ: پروں کا تڑ ہونا۔ صفت لَثِقٌ۔
 لَثَقَ الشَّيْءُ: خراب کرنا۔ فاسد کرنا۔ تباہ کرنا۔
 اَللَثِقُ الشَّيْءُ: تڑ کرنا۔
 اَللَثِقُ وَ اللَّثِقُ: تڑ ہونا۔
 اللَّثِقُ: تری۔ کچھ۔ گارا۔ کہا جاتا ہے "مَشَيْتَنَا فِي لَثِقٍ" ہم کچھ میں چلے۔
 اللَّثِقُ: چپکنے والی مٹی "يَوْمَ لَثِقُ" بند ہوا اور نمناک دن۔
 لَثَقَتِ الْمَطْرُ: بارش کا چند دن تک برسا۔
 الزَّجْلُ: کمزور ہونا — عَلَى فَلَانٍ: اصرار کرنا — ۰ عَنِ كَذَا: منع کرنا۔ روکنا — ۰ فِي التَّرَابِ: لوٹ لگوانا۔ لَثَقَتِ التَّبَعِيَّةُ: اونٹ کو تھکانا — كَلَامَةً: صاف نہ کہنا اور کہا جاتا ہے "لَثَقُوا بِنَا" ہمیں تھوڑا سا آرام لینے دو — وَ تَلَثَقَتِ فِي الْأَمْرِ: تڑ کرنا۔ دیر کرنا — بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تَلَثَقَتِ فِي التَّرَابِ: مٹی میں لوٹ لگانا — الغَيْمِ وَ السَّحَابِ: بادلوں کا آجانا۔
 اللَّثَلَتُ وَ اللَّثَلَاتُ وَ اللَّثَلَاتُ: اللَّثَلَاتُ: مٹلٹل۔ ہر معاملے میں دیر کرنے والا جبھی تھمیں گمان ہو کہ تمہاری حاجت پوری کرے گا تو کالی کر جائے۔
 لَثَمَ (ض) وَ لَثِمَ (س) لَثَمًا: اَوِ الوَجْهَ: بوسہ لینا۔
 لَثَمَ (ض) لَثَمًا: أَنَفَهُ: ناک پر مکار مارنا —
 الْجَحَاةُ خَفَّتِ التَّبَعِيَّةُ: ٹھوکر لگنا اور خون آلود کرنا — التَّبَعِيَّةُ الْجَحَاةُ: بَخِيْفُهُ: ٹھوکر سے توڑنا۔

لَجْمٌ وَ لَيْمٌ وَ لَيْمٌ وَ لَيْمٌ وَ لَيْمٌ وَ لَيْمٌ
وہا تا بنا ہوتا۔

لَا لَيْمَةَ بوسہ لیتا۔

تَلَانِمًا ایک دوسرے کا بوسہ لیتا۔

اللَّيْمُ۔ مں۔ تاک اور اس کا ماحول۔

اللازم۔ فاج لیم۔

اللَيْمَةُ۔ بوسہ لینے کی ہمت۔

اللَيْمَةُ۔ لیم کا اسم مرہ۔ بوسہ۔

اللِيَامُ۔ ڈھانا۔ کپڑا جو تاک اور اس کے ارد گرد

لپٹا جائے۔ نقاب۔ ج لیم۔

لَيْمِي لَيْمِي لَيْمِي۔ تھوڑا پانی پینا۔ الْقُدْرُ۔ ہانڈی کو

خوب چائنا) — وَاللَّيْمِي شَجَرَةُ السَّمُرِ: نمناک

ہونا اور گوئد ہنا۔ لَيْمِيَتِ الْبَيْدَمِنْ طِينٍ وَ نَحْوِهِ:

ہاتھ کا لٹ پت ہونا۔ دودھ کی چکناہٹ سے چکنا

ہونا۔ لَيْمِي الْقُوبُ: کپڑے کا پیندے سے تر ہونا اور

میلا ہونا۔ أَلْتَبِ الشَّجَرَةُ مَا حَوَّلَهَا: نمناک

کرنا۔

تَلَقَّى وَ الشَّيْءُ۔ گوئد نکالنا۔ تَلَقَّى الشَّجَرُ:

گوئد ہنا۔

اللَّيْمِيُّ۔ مں۔ گوئد۔ دودھ کی چکناہٹ۔ تری۔

لَيْمِي الْقُوبُ: کپڑے کا میل۔

اللينة۔ سموڑھا۔ ج لیم و لیم و لیم۔

اللَيْمِيُّ۔ نمناک۔ قُوْتُ لُبِّ بَيْدَمِنْ سے تراور

میلا۔

اللَيْمِيُّ۔ گوئد کھانے کا حریص۔

اللغاة۔ حلق کا کوا۔ ایک درخت کا نام۔

الْحُوْرُوفُ اللَّيْمِيَّةُ۔ ثاء۔ ذال۔ طاء۔

لَجَّ (ض س) لَجَجًا وَ لَجَجًا وَ لَجَجًا۔

خست۔ جھگڑا کرنا۔ دشمنی میں مداومت کرنا — فَي

الْأَمْرِ: لازم ہونا اور بار بار بننے سے انکار کرنا —

بِهِ الْهَمُّ وَ نَحْوِهِ: لازم رہنا — عَلَيَّ فُلَانٌ فِي

الْمَسْأَلَةِ: اصرار کرنا اور جلدی فیصلہ کی خواہش

کرنا۔

لَجَجٌ وَ أَلَجَّ الْقَوْمُ: قوم کا پانی کے گہرے حصے

میں داخل ہونا۔ لَجَجَتِ السَّفِينَةُ: شہنشاہی کاپانی

کے گہرے میں چلنا۔ أَلَجَّتِ الْإِبِلُ: اونٹ کا

بڑھونا۔

لَا جَ: حَصْمَةٌ: جھگڑے میں مداومت کرنا۔

تَلَجَّجَ وَ اسْتَلَجَّ مَتَاعَ فُلَانٍ: کسی کے سامان

پر دعویٰ کرنا۔ اسْتَلَجَّ بِبَيْتِيهِ: اصرار کرنا اور یہ

گمان کرتے ہوئے کہ صادق ہے کفارہ ادا نہ کرنا۔

الْفَيْحُ الْبَيْحُ: سمندر کا مٹلاطم ہونا —

الْأَرْضُ بِالْمَسْوَابِ: موج جیسا ہونا — الْأَمْثَاوُ

الْمَوْجُ معاملہ کا یا موج کا بڑا ہونا — الظلام:

اندھیرے کا گھٹا ٹوپ ہونا۔ اِنْتَجَبَ الْأَرْضُ:

زیادہ اور لمبی نجات والی ہونا — الصَّوَاتُ:

آوازوں کا گلوٹ ہونا۔

الْمَلَجُ۔ پانی کا بڑا حصہ۔ بڑی جماعت۔ وادی کا

کنارہ۔ کوار۔ پہاڑ میں خست جگہ۔ کہا جاتا ہے

”فَرَسٌ أَذْهَمُ لَجًّا“ بہت سیاہ گھوڑا۔

الْمَلَجَةُ۔ پانی کا بڑا حصہ۔ بڑی جماعت۔ چاندی۔ کہا

جاتا ہے ”فُلَانٌ لَجَّةٌ وَاسِعَةٌ“ فلاں کشادگی میں

سمندر کے مشابہ ہے۔ ج لَجَّ وَ لَجَجَ وَ لَجَجًا

الْمَلَجَةُ: آمینہ۔

الْمَلَجِيُّ۔ لَجَّ کی جانب منسوب۔ کہا جاتا ہے

”بَحْرٌ لَجِيٌّ“ یعنی بحرے پیاں۔ اتمام سمندر۔

الْمَلَجَةُ۔ لَجَّ کا اسم مرہ۔ شور۔

اللاجَّ وَ الدُّجُوجُ وَ المُلْجُوجَةُ وَ المَلْجِجَةُ

وَ المِلْجَاجُ۔ خست۔ جھگڑا۔

الْمَلْجِجَةُ۔ بہت سیاہ آنکھ۔ بہت سبز زار زمین۔

لَجًّا (ف) لَجًّا وَ لَجُوعًا وَ لَجِي (س) لَجًّا

وَ اِنْتَجَا إِلَى الْحِصْنِ وَ غَيْرِهِ: قلعہ وغیرہ کی پناہ

لینا۔

لَجًّا تَلَجَجَةً۔ فُلَانٌ مَالَهُ: بعض درتاء کے لیے

خاص کر دینا) — وَالْحَجَا فُلَانٌ: منظر کرنا۔ مجبور

کرنا۔ أَلَجَاةٌ: پچانا۔ أَلَجَا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ: سپرد

کرنا۔

تَلَجَّجًا إِلَى: سہارا لینا — مِنَ الْقَوْمِ: قوم سے

علحدہ ہونا اور دوسروں کا سہارا لینا۔

الْمَلَجَا۔ مں۔ قلعہ۔ جائے پناہ۔ ج أَلَجَا۔

وارث۔ بیوی۔ کچھوے کی ایک قسم جو خشکی اور

تری دونوں میں رہتا ہے واحد اس کا لَجَجَةٌ ہے۔

التَلَجِجَةُ۔ مں — عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: کسی ایسے

فعل کے کرنے پر مجبور کرنا جس کا ظاہر یا ظن کے

خلاف ہو۔

الْمَلَجَا۔ جائے پناہ۔ قلعہ۔ پناہ لینا۔ ج مَلَجِي

لَجِبَ (س) لَجِبًا الْبَحْرُ: سمندر کا جوش مں
آتا — الْقَوْمُ: شور مچانا۔

لَجِبَتْ (س) لَجُوبَةٌ وَ لَجِبَتْ الشَّاةُ: کم

دودھ والی ہونا۔ زیادہ دودھ والی ہونا۔ لَجِبَتْ

بِالسَّيْفِ: تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الْمَلَجِبُ۔ مں۔ گھوڑے کی ہنساہٹ۔

بہادروں کا شور۔ کہا جاتا ہے ”بَحْرٌ ذُو لَجِبٍ“

شور مچانے والا سمندر۔

الْمَلَجِبُ۔ شور مچانے والا۔ خست شور مچانے

والا۔ کہا جاتا ہے ”جَبَشَ لَجِبٌ“ شور مچانے والی

فوج۔

الْمَلَجِبَةُ وَ الْمَلَجِبَةُ وَ الْمَلَجِبَةُ

وَ الْمَلَجِبَةُ وَ الْمَلَجِبَةُ: کم دودھ والی بکری۔ زیادہ

دودھ والی بکری۔ ج لَجِبَابٌ وَ لَجِبَاتٌ:

المَلَجِبَابُ۔ تیر کے جس میں پر لگا دیے گئے

ہوں اور پیکان نہ ہو۔

لَجَدًا (ن) وَ لَجَدًا (س) لَجَدًا وَ لَجَدًا:

الْكَلْبُ الْإِنَاءُ: کتے کا برتن کو اندر سے چائنا

— لَجَدًا الزَّوْجُلُ: کھانا۔ ایک دفعہ دینے جانے

کے بعد زیادہ سوال کرنا — الْحِمَاؤُ: گدھے کا

پہلی مرتبہ چرنا الماشِيَةَ الْكَلَا: جانور کا گھاس کو

دانتوں کے اطراف سے کھانا — مِنَ الشَّيْءِ:

تھوڑا سا لینا — فُلَانًا: برا گیند کرنا۔ تم کہتے ہو

”لَجَدَنِي عَلَى كَذَا“ اس نے مجھ کو فلاں کام پر

برا گیند کیا۔

لَجَفَةً (ن) لَجَفًا: خست مارنا۔

لَجِفَتْ (س) لَجِفًا الْبَيْتُ: کنواں وسیع و

کشادہ ہونا۔ صفت لَجِفَاءُ۔

لَجِفَ الْبَيْتُ: کنوئیں کو وسیع کرنا — الشَّيْءُ:

جوانب سے کشادہ کرنا۔

تَلَجِفَ الْبَيْتُ: جوانب سے کھوڑنا۔ تَلَجِفَتْ

وَ التَّلَجِفَةُ الْبَيْتُ: جوانب سے کھدا ہوا ہونا۔

کنوئیں کا گرنہ۔ مندم ہونا۔ تَلَجِفَ الْوُحْشُ

الْكِنَاسُ: وحشی جانور کا ہرن کی جھاڑی کے

ارد گرد کھوڑنا۔

الْمَلَجَفُ: مں۔ کنوئیں کے جوانب میں

کھدائی۔ کنوئیں کی تہ کا وہ حصہ جس کو پانی گرا

وے۔ سیلاب کے بند ہونے کی جگہ۔ وسط وادی۔

اللاَح - فَا- مَكَانٌ لَّا حَ وَ لَحَجٌ - حَكَّ جَدَّ -
 الْمِلْحَاجُ - بَسَتْ اَصْرَارُ كَرْنِي وَ اَلَا - پَالَانِ جو
 پيٹھ کو زخمی کر دے - سَمَحَاتٌ مِلْحَاجٌ : گاتار
 برسنے والا بادل -
 لَحَبٌ (ف) لَحَبَاتُ الظَّرْفِيِّ : راستہ پر چلنا -
 راستہ کو واضح کرنا - الشَّيْءُ : اثر کرنا -
 بِفُلَانٍ الْأَرْضُ : زمین پر چل رہا - پُجَاؤُ رِيَاةٌ -
 بِالشَّيْفِ : گوارے مارنا - اللَّحْمُ : گوشت
 کو لمبائی میں کاٹنا - اللَّحْمُ عَنِ الْعَظْمِ :
 گوشت کو ہڈی سے جدا کرنا - الرَّجُلُ : سیدھا
 چلانا تیز چلنا - کما جاتا ہے "مَرَّ يَلْحَبُ" (-
 لَحْوُؤًا الظَّرْفِيُّ : راستہ کا واضح ہونا - ظَهَرَ
 الْقَرَسُ : گھوڑے کی پیٹھ کا تھوڑی سی پستی کے
 ساتھ چمکانا ہونا - الْمَوَاقِفُ : جماع کرنا -
 لَحَبْتُ (س) لَحَبَاتُ الرَّجُلِ : بڑھاپے کی وجہ
 سے ذیلا ہونا - لَحْمٌ زَيْدٌ : لاغر ہونا -
 لَحَبْتُ الشَّيْءُ : اثر کرنا نشان چھوڑنا - مَکْرُوهُ
 مَکْرُوهُ کرنا - فُلَانًا : ذلیل کرنا -
 بِالشَّيْفِ : گوارے مارنا -
 اِلْحَابُ الظَّرْفِيِّ : راستہ پر چلنا -
 اَللْحَبُ - مَم (- وَ اَللَّاجِبُ) کشادہ راستہ -
 کما جاتا ہے "ظَرِيقٌ لَحَبٌ وَ اَلْحَبُّ" : کشادہ
 راستہ -
 اللَّحْبِيبُ : پیٹھ پر کم گوشت والی اُونٹنی -
 الْجَلْحَبُ : بہت گالی کئے والا بڑ زبان - کاٹنے یا
 چھیلنے کا اوزار - فَصِحَ زَبَانٌ -
 الْمَلْحُوبُ مَعَهُ زَجَلٌ مَلْحُوبٌ : لاغر مرد -
 ظَرِيقٌ مَلْحُوبٌ وَ مَلْحَبٌ : واضح راستہ -
 لَحَتٌ (ف) لَحَاتُ الْعَصَا : لاشی کو چھیلنا
 - فُلَانًا بِالْعَصَا : لاشی سے مارنا -
 الرَّجُلُ : سب کچھ لے لیتا اور کچھ نہ چھوڑتا - کما
 جاتا ہے "لَحَفُوْكُمْ كَمَا يَلْحَتُ الْقَصِيْبُ"
 اِسْمُوْنَ لَمْ يَلْحَتُ لَمْ يَلْحَتُ الْقَصِيْبُ"
 ویا جس طرح شاخ چھیل دی جاتی ہے -
 اللَّحْتُ - نَعَسٌ - خَالَسٌ -
 اللَّحَاةُ : اتاری ہوئی پھال -
 لَحَجَهُ (ف) لَحَجًا مَارًا - ؤُ بَعِيْبِهِ : نظرد
 لگانا - لَحَجَ الْبَيْتَ : پناہ لینا -

الْوَادِي : وادی کا کنارہ -
 الْمِكْيَالُ الْمُلْحَمُ : حوٹلی صاع کا پیمانہ -
 لَحْنٌ (ن) لَحْنًا وَ لَحْنٌ وَ رَقٌّ الشَّجَرِ وَ
 نَحْوُهُ : پتوں کو کوٹ کر آٹا یا جو ملا کے چارہ تیار
 کرنا -
 لَحْنٌ (ن) لَحْنًا وَ لِحْنًا التَّبَعِيُّ : اُونٹ کا
 آڑیل ہونا - فِي الْمَشْيِ : آہستہ چلنا -
 لَحْنٌ (س) لَحْنًا بِه : چمکانا -
 تَلَحَّنَ الشَّيْءُ : بےس دار ہونا - زَانِسَةٌ : میلا
 ہونا - الْقَوْمُ : بچے اور آٹا جو ملا کر چارہ بناتا -
 اللَّحْنُ : میلا -
 اللَّحْجِيْنُ : کئے ہوئے بچے اور آٹا جو ملا کر تیار کیا
 ہوا چارہ -
 اللَّحْجَةُ : جماعت - پارٹی -
 اللَّحْمُونُ مِنَ الْجَمَالِ اَوْ النَّوْقِ : بست رفتار
 اُونٹ یا اُونٹنی -
 اللَّحْمِيْنُ : چاندی (تصغیر ہی کے وزن پر مستعمل
 ہے) -
 اللَّحْمِيَّةُ دِرَاهِمٌ - (لَحْمِيْنُ کی طرف منسوب
 ہونے کی وجہ سے) -
 اَلْحَمِيُّ اِلَى غَيْرِ قَوْمِهِ : غیر قوم کی طرف اپنے
 کو منسوب کرنا -
 لَحَتٌ (ن ض) لَحَاتُ الْقَرَاةَةِ يَنْتَنُ : رشتہ داری
 نزدیک ہونا -
 لَحَتٌ (س) لَحًا وَ لَحَاتُ الْعَيْنِ : کچھڑے
 پلکوں کا چکنا -
 اَلْحُ فِي السُّوَالِ : سوال میں اصرار کرنا -
 السَّحَابُ بِالْمَطَرِ : بادل کا لگاتار برسا -
 الْمَطِيُّ : سواری کا تھک کر رہ کرنا - الْقَتَبُ
 عَلَيَّ ظَهَرَ الذَّابَّةُ : پالان کا چوپایہ کی پیٹھ کو زخمی
 کرنا - اَلْحَمَلُ : اُونٹ کا آڑیل ہونا -
 تَلَحَّحَ عَلَيْهِ : محض اَلْحُ عَلَيْهِ -
 اللَّحُ - مَم - کما جاتا ہے "هُوَ ابْنٌ وَعَمِيٌّ لَحًا"
 وہ میرا قریبی چچا زاد ہے - اور لَحًا حَالِيَّتُ كِي بِنَا
 منسوب ہے اس لیے کہ اس کا ما قبل معرفہ ہے
 اور مکرہ کی صورت میں تم کو ہے "هُوَ ابْنٌ عِمِ
 لِحُ" جر کے ساتھ اس لیے کہ یہ عم کی صفت ہے
 اور ایسا ہی مؤنث اور تشبیہ اور ترحیح -

جَلْحَابٌ -
 اللِّجَابُ : ہار میں خار کے اوپر بڑھا ہوا حشہ -
 دروازے کی چوکت - جَلْحَابٌ وَ لِحْفٌ -
 اللَّحِيْفَةُ : دروازے کے چلو -
 يَنْزِلُ مَلْحَجَةً - مَسْدَمُ كَوَالٍ -
 لَحْلِحٌ لِحْلِحَةً وَ تَلْحَلِحُ : تَلَانًا -
 فِي صَدْرِهِ شَيْءٌ : مَکْلَبًا - لَحْلِحُ اللَّفْمَةُ فِي
 فِيْهِ : بغیر چبانے کے منہ میں پھرانا - تَلْحَلِحُ
 بِالشَّيْءِ : سبقت کرنا اور کما جاتا ہے "تَلْحَلِحُ
 ذَاؤُ مَهْنَةً" یعنی اس نے اس کے گھر کو لے لیا -
 الْمَلْحَلَاجُ : توتلا - ہکلا -
 لَحْمٌ (ن) لَحْمًا الْقَوْتُ : کپڑا سینا -
 اَلْحَمُّ الذَّابَّةُ : چوپایہ کو لگام لگانا -
 اَلْقَدْرُ : دیک کے کڑے میں لکڑی لگا کر اٹھانا -
 النَّاقَةُ : لگام سے داغ لگانا - ؤُ عَنْ حَاجِبِهِ
 رَوَّكًا : کما جاتا ہے "تَكَلَّمْتُ فَالْحَفْنَةُ وَ الْقَمْنَةُ
 اَلْحَجْرُ" اس نے گفتگو کی تو میں نے اسے بند کر
 دیا -
 اَلْحَمُّ وَ لَحْمُ الْمَاءِ فُلَانًا : پانی کا منہ تک
 پہنچنا -
 اِنْتَحَمَتِ الذَّابَّةُ : لگام لگانا -
 اِسْتَلْحَمَ فُلَانًا الْقَرَسُ : لگام لگانے کو کرنا -
 اَللْحَمُ : زمین نہ پست نہ بلند - جَلْحَامٌ - (-
 وَ الْمَلْحَمُ وَ الْمَلْحَمُ) گرگٹ - مینڈکیں - جانور
 جس سے بد فال لیں - اَللْحَمُّ : فضاء آسمانی -
 اللِّجَامُ : لگام - جَلْحَمٌ وَ لَحْمٌ وَ اَلْحَمَّةُ -
 اُونٹوں کا نشان اور کما جاتا ہے "جَاءَ فُلَانٌ وَ قَدْ
 لَفَظَ لِحَامَهُ" یعنی فلاں شخص اپنی حاجت سے
 تھک کر واپس ہوا اور عرب کے امثال میں سے
 ہے "اَتَّبَعَ الْقَرَسُ لِحَامَتَهَا" بھلائی کو پورے
 طریقے سے کرنے کیلئے کئے کے موقع پر استعمال
 کیا جاتا ہے -
 اَللِّحَامُ : لگامیں بنانے والا -
 اللِّجَامُ : جس سے بد گفتگوئی جاتی ہے -
 اللَّحْمَةُ وَ الْمَلْحَمُ : لگام دینے کی جگہ -
 اللَّحْمَةُ : لَحْمٌ کا واحد - زمین کے لیے علم -
 لَحْمَةُ الْوَادِي : کنارہ وادی -
 اللَّحْمَةُ : مسخ ہار - زمین کے لیے علم لَحْمَةُ

لَحِجَّ (س) لَحَجًا السَّيْفُ وَنَحْوُهُ: تلوار کا
میان میں چٹ کر رہ جانا — بِالْمَكَانِ: لازم
پڑنا — الشَّيْءُ: تنگ ہونا — اللِّحْيُ: کج
ہونا۔ صفتُ الْحَجِّ: لِحَجَّتْ عَيْشُهُ: کچھڑوالی
آگھ ہونا۔
لَحِجَّ عَلَيْهِ الْخَبِيرُ: غلط خبر دینا۔
الْحَجَّةُ إِلَيْهِ: مجبور کرنا۔
الْتَحَجَّ إِلَيْهِ: مائل ہونا — إِلَيْهِ: مائل کرنا۔
مَجْبُورٌ كَرَأَ:
تَلَحَّجَّ الْأَمْرُ عَلَى فَلَانٍ: ضمیر کے خلاف
ظاہر کرنا۔
اسْتَلَحَجَّ السَّابَّ: دروازہ کا بند ہونا۔
الْمَلْحَجُ: مہ آگھ کا گڑھا۔
الْمَلْحَجُ آگھ کا گڑھا۔ گھر کا گوشہ۔ کجاوہ۔ پھاڑا کا
ابھرا ہوا حصہ۔ وادی کا گوشہ و کنارہ۔ ج الْحَاجِ:
مکان لِحِجِّ: تنگ مکان۔
الْمَلْحَجُ: آگھ کی کچھڑ۔
الْمَلْحَجُ وَالْمَلْحَجُ: جائے پناہ۔ کہا جاتا
ہے "إِنَّ فِي النَّاسِ لَمَلْحَجًا" لوگوں میں جائے
پناہ ہے فُقِّلَ الْمَلْحَجُ: بند تالا۔
الْمَلْحَجُ: تنگیاں۔
الْمَلْحَجُ: پھاڑے کے تنگ راستے۔
لَحُوجٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: ضمیر کے خلاف ظاہر
کرنا۔
لَحَذَ (ف) لَحَذًا: أَلْمِيَّتُ: میت کو دفن کرنا
— اللَّحْدُ: کھودنا — لِلْمِيَّتِ: بطنی قبر کھودنا
— السَّهْمُ عَنِ الْهَدْفِ: نشانے سے خطا کرنا
— إِلَى فَلَانٍ: مائل ہونا — فِي الْيَمِينِ: بے
دینی اختیار کرنا — عَلَيَّ فِي شَهَادَتِهِ: گنہگار
ہونا۔
أَلْحَذَ الْخَادَةَ: أَلْمِيَّتُ: مردہ کو دفن کرنا —
اللَّحْدُ: کھودنا — لِلْمِيَّتِ: بطنی قبر کھودنا —
عَنِ الْيَمِينِ: دین سے ہٹنا۔ دین میں طعن کرنا۔
جَحَّزُوا: اذکار خداوندی کو چھوڑنا اور ظلم کی
طرف مائل ہونا اور اللہ کے بارے میں شک کرنا
— فِي الْخَرَمِ: حمار کو حلال سمجھنا اور بے
عزتی کرنا — السَّهْمُ الْهَدْفُ: نشانے کے ایک
جانب میں لگنا — بِهِ: عیب لگانا اور باطل بات

کرنا۔
لَا حَذَّ مَلَا حَذَّةً صَاحِبَةٌ: ہر ایک کا ایک
دوسرے سے کجی برتا۔
إِلْتَحَذَ عَنِ الْيَمِينِ: دین سے پھرتا — إِلَى
كَذَا: مائل ہونا — إِلَى فَلَانٍ: پناہ لینا۔
الْلَحْدُ وَاللَّحْدُ: بطنی قبر۔ ج الْحَادُ و
لَحْوُدُ:
الإِلْحَادُ: الْحَذُّ كَالصَّادِرِ: کفر۔ بے دینی۔
الْمَلْحُودُ: مائل ہونے والا۔
الْمَلْحُودُ: ناگوار کن۔ کہا جاتا ہے "قَبْرٌ لَأَجْدُو
مَلْحُودٌ" بطنی قبر۔
الْمَلْحُودُ: ناگوار کن۔ بے دین۔ ج مَلَا حَذَّةً و
مَلْحُودُونَ الْمَلَا حَذَّةً: کافروں کی ایک جماعت
جس کو ہر یہ کہتے ہیں۔
الْمَلْحُودُ وَالْمَلْحُودُ: بطنی قبر۔
الْمَلْحُودَةُ: دین میں بہت طعن کرنے والا۔
الْمَلْحُودُ: جائے پناہ۔
لَحَزَ (س) لَحْزًا: تخیل ہونا۔ صفت لِحْزٍ و
لِحْزٍ:
لَحْزَهُ (ف) لَحْزًا: اصرار کرنا۔
تَلَحَّزَ: تخیل ہونا۔ کھٹی چیزوں کے کھانے کے
لئے منہ میں پانی بھر آنا۔ جَنَاحٌ يَأْكُرُ لِيَعْرِفَ كَمَا
— عِنْدَهُ: پیچھے ہٹنا۔
تَلَاخَزَ الْقَوْمُ: کلام میں مقابلہ کرنا —
الضَّيْبَانِ: اشعار کا نقل کرنا۔
الْمَلْحَزُ: تنگ جگہ۔ ج مَلَا حَزَ: کہا جاتا ہے
"وَقَفُّوا فِي الْمَلَا حَزٍ" لوگ تنگ جگہوں یا
تنگیوں میں پڑ گئے۔
الْمَلَا حَزٌ مِنَ الشَّجَرِ: گنجان ایک میں ایک
گھسا ہوا۔
الْمَلْحَزَاءُ: زخیرہ۔ خزانہ۔
لَحَسَ (ف) لَحْسًا: الدُّوْدُ الضُّوْفُ: کیڑے
کا اون کو چاٹنا — الْحَزَاذُ الْبَحْصِيُّ: مڈیوں کا
بزبوں کو چٹ کر جانا۔
لَحَسَ (س) لَحْسًا و لَحْسَةً و لَحْسَةً و
مَلْحَسًا الْقِصْعَةَ: پیالہ کو زبان یا انگلی سے چاٹنا۔
اور اسی سے مثل ہے "أَسْرَعُ مِنَ لَحْسِ
الْكَلْبِ أَنْفَهُ" کتے کا پانی ناک چاٹنے سے بھی

زیادہ تیز۔
لَحْسَةُ الشَّيْءِ: چٹانا۔
الْحَسَّ الْمَاشِيَةَ: تھوڑا سا چرا۔ أَلْحَسَتْ
الْأَرْضُ: بھڑی کا ابتدائی حصہ نکالنا۔
الْتَحَسَّ مِنْهُ حَقَّةً: حق لینا۔
الْلَحْسُ: مص۔ بھڑی کی ابتدائی روئیدگی۔
سَنَةً لِأَجْسَةٍ: سخت سال۔ کہا جاتا ہے
"أَلْحَذْتُ لَهُمْ لَوْ أَحْسَسُ" یعنی ان کے اوپر سخت قحط
سایاں واقع ہوئیں جو ساری پیداوار کو چٹ کر
گئیں۔ کہا جاتا ہے مَالَكَ عِنْدِي لَحْسَةً
تمہارے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں۔
الْلَحْسُ: مٹھاس کے پیچھے لگنے والی جیسے
کسی۔
الْلَحْسُ: بد بخت۔ مٹھاس (— و
الْحَوْسُ وَالْمَلْحَسُ وَالْمَلْحَسُ: لا لُحِي جو
ہر چیز کو لے لے مٹھاس: بہار۔
الْحَسَّ: بہت چاٹنے والا۔
الْحَسَّاسَةُ لَحْسًا كَالْمَوْنَتِ: شیرینی۔
الْمَلْحَسُ: وادی کی تنگ نالی۔ ج لَحْسًا:
لَحْصَ (ف) لَحْصًا فِي الْأَمْرِ: مشغول ہونا۔
خَبَرَ فَلَانٍ: پورے طریقہ سے معلوم کرنا اور
تھوڑا تھوڑا بیان کرنا۔
لَحْصَ خَبْرَهُ: بِمَعْنَى لَحْصَهُ — فِي كَذَا:
تختی کرنا۔ تنگی کرنا — عَنْ كَذَا: روکنا۔ ست
کرنا — الْكِتَابُ: بچتہ کرنا۔
الْتَحْصَ الْأَمْرُ: معاملہ کا سخت ہونا۔
الْتَحْصَتِ الْإِثْرَةَ: سوئی کے ناکہ کا بند ہونا۔
الْتَحْصَةُ الشَّيْءِ: مشغول ہونا — إِلَى كَذَا:
مجبور کرنا — التَّيْبَةُ وَ نَحْوَهَا: انڈے کو
تھوڑا تھوڑا مہلت سے پینا — عَنْ كَذَا:
روکنا۔ ست کرنا۔ الْتَحْصَتُ عَيْشَهُ: کچھڑے
آگھ کا چپک جانا۔
لَحْصًا: مٹی بڑ کرہ۔ تختی۔ مصیبت۔
الْلَحْصُ: اوپر کے پونے کی شکن۔
الْلَحْصَانُ: دوڑ۔ تیزی۔
الْلَحْصُ: تنگ۔ سگڑا۔
الْمَلْحَصُ: جائے پناہ۔
لَحْظَةً (ف) لَحْظًا: پانی چھڑ کرنا۔ زینت دینا۔

ہو جانے کے بعد زراعت کریں۔ مفرد اللحق ہے۔

اللحاق: کمان کا خلاف۔

اللاجق: نا۔ پہلے پھل کے بعد کا پھل۔ ابؤ لاحق: باز۔

اللاجقه: لاحق کا مؤنث۔ پہلے پھل کے بعد کا پھل۔ ج: لواحق۔

اللواحق: باز کے انواع میں سے ایک شکاری پرندہ۔ جس کی پیٹھ خیالی اور سینہ سفید ہوتا ہے۔

الملاحق: تیز تیز چھینکنے والی کمان، اونٹنی جس سے اونٹ آگے نہ بڑھ سکیں۔

الملاحق: خاندان میں ملایا ہوا۔

لحک (ف) لَحَكَوْا لَحْكَ و تَلَاحَكَ الشئ باثی: چپکانا۔ تَلَاحَكَ الشئ: ایک دوسرے

میں داخل ہونا۔ تَلَاحَكَ الشئ: عمارت کا مضبوط ہونا۔ وَلَحَكَ الصَّبِيءُ: بچے کے منہ میں دو اٹکانا۔

لَوَحَكَتْ فِقَارٌ ظَهْرُهُ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

لَحَكَ (س) لَحَكَ الْفَعْلُ: شہد پھاننا۔

اللَّحْكَوَةُ وَالْحَكَاءُ: چھپل کی مانند ایک کیزا جو ریت میں رہتا ہے۔

اللحک: وہ شخص جسے انزال دیر میں ہو۔

الملاحک: گھٹیا۔

لَحْلَحَ و تَلَاحَلَخَ: القَوْمُ: ایک جگہ پر قائم رہنا۔ دور چلا جانا۔

المَلْحَلَحُ: ننگ جگہ۔

المَلْحَلَحُ: قوم کا بڑا سردار۔

لَحْمٌ (ن) لَحْمًا الْأَمْرُ: مضبوط کرنا۔

القَصَابُ الْعَظْمُ: قصابی کا بڑی سے گوشت کو جدا کرنا — ؤ: نقصان دینا۔ تکلیف پہنچانا۔

الصَّائِغُ الْفَيْصَةَ: سار کا چاندی کو درست کرنا۔ لَحْمَةٌ (ف) گوشت کھانا۔

لَحِمٌ (س) لَحْمًا بِالْمَكَانِ: لازم ہو کے رہنا۔ الصَّفْرُ و نَحْوُهُ: گوشت کا خواہش مند ہونا۔

لَحِمٌ (س) لَحْمًا و لَحْمٌ (ک) لَحَامَةٌ: مونا ہونا جس میں زیادہ گوشت والا ہونا۔ گوشت کا بہت

هُ الْقَرَبُ: کپڑا پہنانا۔ دوسرے کیلئے لحاف بنانا۔

الزَّجْلُ: دوسرے کیلئے لحاف خریدنا — ضَيْفَةٌ: سرا میں مہمان کیلئے بچھونا اور لحاف سیا کرنا۔

شَارِبَةٌ: موچھ کاٹنے میں مبالغہ کرنا — بِه: نقصان پہنچانا — الظَّفَرُ: جڑ سے ناخن کاٹنا۔

الزَّجْلُ: دامن کوہ میں پینا۔ تکبر سے ازار کو زمین پر گھسیٹ کر چلانا۔

لَا حَفَةَ: مدد کرنا۔ ایک دوسرے کیلئے لازم رہنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يُضَاغِعُ السَّيْفَ وَيُلَاحِفُ الْحَوْفَ" یعنی فلاں تلوار ساتھ رکھتا ہے اور ڈرتا ہے۔

تَلَاحَفَ و التَّحَفَ: اپنے لیے لحاف بنانا۔ بِاللَّحَافِ وَ غَيْرِهِ: لحاف وغیرہ سے ڈھانکنا۔

الملاحف: دامن کوہ۔

الملاحفة: لَحَفٌ کا اسم نوع۔ لحاف اوڑھنے والے کی حالت۔

الملاحف: رضائی۔ لحاف۔ ج: لَحْفٌ۔

الملاحف و الملاحفة: چادر۔ اوپر کا لباس ج ملاحف۔

لَحِقَ (س) لَحَقًا و لَحَاقًا فَلَانًا و بِفَلَانٍ: پا لیرا۔ آملنا۔ آجینا — اِلَى قَوْمٍ كَذَا: چمٹنا۔

لَحِقَ (س) لَحِقُوا: القَوْمُ: گھوڑے کا دینا ہونا — الفَمْرُ فَلَانًا: قیمت لازم ہونا۔

لَا حَفَةَ: پیچھے ہونا۔

الْحَفَةُ: پالینا۔ آملنا — هُ بِفَلَانٍ: ملا دینا۔ لاحق کر دینا۔

تَلَاحَقَ: ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ تَلَاحَقَتِ الْمَطَايَا: سواروں کا بعض کا بعض سے ملنا۔

التَّحَقُّ بِه: ملنا یا چمٹنا۔

اِسْتَلْحَقَ: اپنے خاندان میں ملانا۔ اِسْتَلْحَقَ الزَّجْلُ: وادی کی نقلی ہوئی زمین میں کھتی کرنا۔

الملاحق: جو اپنے پہلے کے ساتھ ملے۔ پھل جو پہلے پھل کے بعد ہو۔ ج: اللحاق۔ الملاحق: قوم جو اپنے سے پہلی قوم کے ساتھ اس کے گزر جانے کے بعد لاحق ہو۔ لَحِقَ الْعَنَمُ: بکری کے بچے (—

و الملاحق) شئی زائد۔ تہہ کتاب۔

الملاحق: وادی کے وہ قطعات جہاں پانی خشک

اَلْحَفَظُ الرَّجُلُ: غصبناک ہونا۔

لَحَظَ (ف) لَحَظًا و لَحَظَاتًا فَلَانًا و اِلَى فَلَانٍ بِالْعَيْنِ: گوشہ چشم سے دیکھنا۔ انتظار کرنا۔

(لَحَظًا و لَحَظًا تَلَحِظًا) الْعَيْنُ: اونٹ کو آنکھ کے نیچے داغ کی علامت لگانا۔

لَا حَفَظَ لِحَافًا و مَلَاحِظَةً اِنْتَظَرَ كَرْنَا: ایک دوسرے کو دیکھنا۔

تَلَاحَظَ الشئُ: ننگ ہونا۔

تَلَاحَظَتِ الْأَشْيَاءُ: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَخَوُ الْهَمِّ مُتَشَابِكَةٌ مُتَلَاحِظَةٌ" یعنی ان کے احوال ایک جیسے ہیں۔

الملاحظ: من۔ آنکھ کا اندرونی حصہ۔ ج: لِحَافًا و اَلْحَافَ۔

الملاحظ و الملاحظ: کپٹی کی جانب گوشہ چشم۔ آنکھ کے نیچے کا داغ۔ ج: لَحَظٌ۔ الملاحظ: گھر کا گھن۔ و لِحَافًا السَّهْمُ: تیر کے اوپر کا پر۔

لِحَافَةُ الرِّيشَةِ: پر کا سفید پتلا حصہ۔ الملاحظ: بہت سخت دیکھنے والا۔

التَّلَحِظُ: ہم آنکھ کے نیچے کا داغ۔

اللاجظة: لاحق کا مؤنث۔ آنکھ۔ ج: لَوَاحِظٌ۔

الملاحظة: لاحق کا اسم مرتبہ۔ لَحَظَاتٌ: کہا جاتا ہے "جَلَسْتُ عِنْدَهُ لِحَظَةً" میں اس کے پاس ایک لمحہ بیٹھا۔

الملاحظ: ننگ۔

الملاحظ: شہید و نظیر۔

الملاحظ: دیکھنا۔ دیکھنے کی جگہ ج ملاحظ۔ لَحَفَةٌ (ف) لَحَفًا: لحاف اوڑھانا — ؤ

الْقَرَبُ: کپڑا پہنانا — ؤ يَجْمَعُ كَفِيَةً: مکارنا — ؤ سَهْمًا: تیر مارنا — التَّارُ الْحَطَبُ: آگ میں لکڑی والا۔ لَحَفَ الشئُ: چانا —

عِنْدَ اللَّحْمِ: گوشت اتارنا۔ لَحَفَ الْقَمْرُ: چاند کا آخری تین راتوں میں ہونا۔ لَحَفَ لَحَفَةً الزَّجْلُ فِي مَالِهِ: یکم ضائع ہونا اور کہا جاتا ہے "لَحَفِي فَضْلُ لِحَافِهِ" یعنی اس نے مجھے زائد عطیہ دیا۔

لَحَفَ إِزَاوَهُ: ازار کو تکبر سے زمین پر گھسیٹنا۔ اَلْحَفُ السَّائِلُ: اصرار سے مانگنا۔

خواہش مند ہوتا۔

لَحْمٌ لَحْمًا: قتل کیا جانا۔ صفت لَحِيمٌ۔
لَا حَمَّ الْحَيْلُ: رشتی مضبوط بننا۔ الشَّيْءُ
بِالشَّيْءِ لَانًا: لَحْمٌ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: ایک کو
دوسرے کے ساتھ چکانا۔

الْحَمُّ: النَّوْبُ: کپڑا بننا — الشَّعْرُ: اشعار
کہنا — الزُّرْعُ: کھیتی میں دانہ بیٹھنا — بَيْنَ
الْقَوْمِ شَرًّا: قوم کے درمیان فساد کرنا۔ الشَّيْءُ
بِالشَّيْءِ: لانا — هُ بَصْرَةٌ: تیز نظر سے دیکھنا۔
مُحَوَّرًا: الْحَمُّ الزُّجْلُ: ٹھکین کرنا — فَلَانًا
الْأَرْضَ: زمین پر چل کرنا۔ بَجَّارًا: هُ
عِرْضٌ فَلَانٌ: گالی دینے کا موقع کرنا۔ الْحَمَّتِ
الذَّابِيَّةُ: ٹھہر جانا۔ آگے نہ بڑھنا۔ الْحَمُّ
بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا — الزُّجْلُ: گھر میں
بست گوشت والا ہونا — الْقَوْمُ: گوشت کھلانا
— الشَّيْءُ: درست کرنا۔ الْحَمَّةُ الْقِتَالُ: گھیر
لینا اور رہائی نہ ملنا۔ الْحَمُّ الزُّجْلُ: ہرنا۔

تَلَا حَمَّ الْقَوْمِ: باہم مقابلہ کرنا۔ تَلَا حَمَّتِ
الشَّجَّةُ: زخم کا پھر جانا اور درست ہو جانا —
وَالْتَحَمَتِ الشَّيْءُ: جڑ جانا اور درست ہونا —
الْتَحَمَتِ الْعُزْبُ بَيْنَهُمْ: گھسان کی جنگ
ہونا۔ "الْتَحَمَ الْجُحُشُ لِلْبُرْءِ": زخم پھر جانا اور
درست ہو جانا۔

اسْتَلْحَمَ الظَّرِيقُ: راستہ کا کشادہ ہونا۔
الظَّرِيقُ او الظَّرِيقَةُ: جیچے پڑنا — الْعَطْطُ
فَلَانًا: مشغول کرنا — الزُّرْعُ: گھسان ہونا۔
اسْتَلْحَمَ الزُّجْلُ: جنگ میں پھنس جانا اور
رہائی نہ ملنا۔

اللَّحْمُ وَاللَّحْمُ مِنْ جِسْمِ الْحَيَوَانِ:
گوشت۔ رَجَّ لِحَامًا وَ لِحْوَماً وَ لِحْمًا
لِحْمَانًا وَ الْحَمُّ: لَحْمٌ كَلَّ شَيْءٌ: مفر لَحْمٌ
الْبَحْرُ: ایک کپڑا ہے۔ کہا جاتا ہے "اَكَلُ
لَحْمِي وَزَنَعُ لَحْمِي" یعنی میری شہیت کی۔
الْمَلْحَمَةُ: گوشت کا ایک ٹکڑا۔ لَحْمَةُ النَّوْبِ
کپڑے کا پانا۔

الْمَلْحَمَةُ: قرابت۔ کپڑے کا پانا۔ باز کو اس کے
ٹھکارے جو کھلایا جائے۔ رَجَّ لَحْمًا:
اللِّحَامُ: جس سے پھنسن کو درست کیا جائے۔

اللِّحَامُ: گوشت بچھنے والا۔

اللَّاحِمُ: گوشت کھلانے والا۔ جس کے پاس
گوشت ہو۔ نَبَاؤُ لَاحِمٌ: گوشت کھانے والا یا
گوشت کا خواہش مند باز۔

اللِّحْمُ: جسم میں زیادہ گوشت والا۔ گوشت کا
زیادہ خواہش مند۔ نَبَاؤُ لَاحِمٌ: گوشت کھانے والا یا
گوشت کا خواہش مند باز۔ اللِّحْمُ: شیر۔

اللِّحِيمُ: جسم میں زیادہ گوشت والا۔ مقتول۔
اور کہا جاتا ہے "هَذَا الْحِيمُ ذَاكَ" یعنی یہ اس کے
مواثق اور ہم شکل ہے۔

الْمَلْحَمَةُ: مفع۔ گوشت کھانے کا عادی۔ قوم کے
ساتھ ملا ہوا قیدی۔ ایک قسم کا کپڑا جس کا تاننا ریشم کا
اور بنا غیر ریشم کا ہوتا ہے۔

الْمَلْحَمُ: نا۔ گوشت کھلانے والا یا جس کے پاس
گوشت زیادہ ہو۔

الْمَلْحَمَةُ: گھسان کی جنگ کا موقع۔ بچ
ملا جیم۔

الْمَلْحَمُ مِنَ الْحَيَاةِ: مضبوط بنی ہوئی رشتی۔
کہا جاتا ہے شَجَّةٌ مُتَلَا حِمَةً: زخم کہ جس میں
گوشت پھٹ جائے اور پھر جڑ جائے۔

الْمُسْتَلْحَمُ: نا۔ شیر۔

لَحْنٌ (ف) لَحْنًا وَ لَحْنًا وَ لِحْوَناً وَ لِحَانَةً
لِحَانِيَّةٌ فِي كَلَامِهِ او فِي الْقِرَاءَةِ: اعرابی غلطی
کرنا۔ صفت لَاحِنٌ وَ لِحَانٌ — لِحَانَةٌ — لِحْنًا
لِفُلَانٍ: کسی سے اشارہ کنایہ میں بات کرنا تاکہ
دوسرا نہ سمجھ سکے۔ صفت لَاحِنٌ۔ اور لِحَانٌ
نہیں کہا جاتا اَلِيَهُ: قصد کرنا۔ مائل ہونا — قَوْلُهُ:
سمجھنا۔

لِحْنٌ (س) لِحْنًا الزُّجْلُ: ذہین ہونا۔ اپنی دلیل
سے خبردار ہونا — الْكَلَامُ: سمجھنا۔

لِحْنَةٌ: غلطی کی طرف منسوب کرنا۔ لِحْنٌ فِي
الْقِرَاءَةِ: خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا۔

لَاحِنُ الْقَوْمِ: گنگو کو ایک دوسرے پر دہرانا۔
الْحِنُّ فَلَانًا الْقَوْلُ فَلِحْنَةٍ: اس نے فلاں کو
بات سمجھائی پس وہ سمجھ گیا۔

اللِّحْنُ: مصل — مِنَ الْأَصْوَابِ: موزوں
آواز۔ رَجَّ الْحَانَ وَ لِحْنَ: صِنَاعَةٌ
الْأَلْحَانُ: فن موسیقی لِحْنُ الْكَلَامِ: مضمون

كلام۔ اللِّحْنُ فِي الْكَلَامِ: اعراب و بنا کی غلطی۔

اللِّحْنُ: لغت۔ سمجھنا۔

اللِّحْنُ: زیرک۔ سمجھ دار۔

اللَّاحِنُ: نا۔ شیخ کلام کا جاننے والا۔

اللِّحْنَةُ: وہ شخص جس کی غلطی لوگ بہت
کھڑیں۔

اللِّحْنَةُ: بہت غلط بولنے والا۔ جو لوگوں کی
غلطی بہت کھڑے۔

الْأَلْحِنُ: بہت زیادہ سمجھ دار۔ خوش آوازی
سے گانے والا یا پڑھنے والا۔

لَحَا يَلْحُو لِحْوًا وَ الْتَحَى الْيَحْيَاءُ:
الشَّجْوَةُ: درخت کو چھیننا۔ لَحَا: گالی دینا۔

الْمَلْحِيُّ: ککڑی پھیلنے کا داڑھی۔

لَحْوَجٌ لَحْوَجَةٌ عَلَيْهِ الْخَبْتَرُ: کڑ پڑ کرنا اور
ضمیر کے خلاف ظاہر کرنا۔

لَحِي يَلْحِي لِحْنًا الشَّجْوَةَ: درخت کو
چھیننا۔ فَلَانًا: ملامت کرنا۔ گالی دینا۔ عیب نکالنا۔

صفت فاعلی لَاحٍ۔ صفت مفعولی مَلْحِيٌّ۔ کہا جاتا
ہے "لَحَا اللَّهُ فَلَانًا" اللہ فلاں پر لعنت کرے۔

لَاحِي لِحَاءً وَ مَلْحَاةَ الزُّجْلِ: جھگڑا کرنا
اور اسی سے مثل ہے "مَنْ لَاحَاكَ فَقَدْ
عَادَاكَ" جس نے تم سے جھگڑا کیا اس نے تم سے
دشمنی کی — فَلَانًا: دفع کرنا۔ منع کرنا۔ ایک
دوسرے کو ملامت کرنا۔

الْحِي لِحَاءً: قابل ملامت کام کرنا۔ الْفَوْدُ:
پھیلے جانے کے قابل ہونا۔

تَلْحَى تَلْحِيًا: ٹھوڑی کے نیچے عمامہ لپیٹنا۔
تَلَا حِي تَلَا حِيًا الْقَوْمُ: باہم لعن کرنا۔ باہم
گالی گلوں کرنا۔ باہم ملامت کرنا۔ باہم بغض رکھنا۔
باہم جھگڑنا۔

الْتَحَى الْيَحْيَاءُ: داڑھی اگانا۔ داڑھی رکھنا
— الْفَوْدُ: ککڑی پھیلنا۔

اللِّحِي: جڑا۔ داڑھی اگنے کی جگہ۔ لِحْنَانٌ
دونوں جڑے۔ لَحْيَا الْفَدْيِيرُ: تالاب کے
دونوں کنارے۔ رَجَّ الْحِ وَ لِحِيًا۔

اللِّحَاءُ: مہ۔ ککڑی یا درخت کی چھال۔ اور
امثال عرب سے ہے "لَا تَدْخُلُ بَيْنَ الْعَضَا
لِحَانِيهَا" لاشی اور اس کی چھال کے درمیان

داخل مت ہوا ان دو دوستوں کے حق میں بولتے ہیں جن کے درمیان کوئی فساد نہ کر سکے۔

اللَّخِيَانُ: لہی داڑھی والا۔ مؤنث لَخِيَانَةٌ۔
اللِّخِيَّةُ: داڑھی، ج لِحْيَةٍ و لَحْيٍ اور
نسبت کیلئے لَحْيَوِيٌّ۔ لِحْيَةُ الْجَمْرِ:
پریاوشاں (نام ایک دو کا) لِحْيَةُ التَّيْسِ: نام
ایک نباتات کا جس کے پتے گندناکے پتے کے
مانند ہوتے ہیں لیکن اس سے بلند ہوتے ہیں۔
اللِّخِيَانُ: تھوڑا پانی، سیلاب کے بنائے
ہوئے گڑھے۔ واحد لِحْيَانَةٌ۔

الْأَلْحَى وَاللِّخِيَانِيَّةُ: لہی یا بڑی داڑھی
والا۔

لَحْمَةٌ (ن) لَحْمًا طماخ مارنا۔ لَحْمٌ الْخَيْرُ: پوری
خیر معلوم کرنا۔ فِي الْكَلَامِ: مشتہر اور سرست
بات کرنا۔ هُوَ بِالطَّبِيبِ: خوشبو لگانا۔ فِي
الْحَبِيلِ: پہاڑ میں بیچھا کرنا۔ فِي الْخَفْرِ:
کھودنے میں جھکانا۔

لَحْمٌ لَحْمًا و لَحْيًا و لَحْيَةً (س) لَحْمًا
عَيْتُهُ: زیادہ آنسو اور موٹی پلکوں والا ہونا۔
صفت لَحْمِيَّةٌ۔

الْفَيْحُ الْأَمْزُ: غلط طہ ہونا۔ کہا جاتا ہے: "الْفَيْحُ
عَلَيْهِ الْأَمْزُ" معاملہ ان کے اوپر غلط طہ ہو گیا۔
الْقَشْبُ: جھنسی و گنجان ہونا۔

تَلَاخُ الْوَادِي: تنگ وادی ہونا اور درختوں
سے بھری ہوئی ہونا۔

وَادٍ لَاحٍ تَنَكُّ: اور گنجان درختوں والی وادی۔
اللَّخَةُ: ناک۔ اَمْزَاةٌ لَخْمَةٌ: گندی بدبودار
عورت۔ اَصْلُ لَخْمٌ: عیب دار اصل۔

مَسْكُونٌ مَلْتَمَعٌ: بدست، ہوش و حواس
زائل شدہ و اِدْمَلْتَمَعٌ: بدست اور گنجان درختوں
والی وادی۔

لَحْيَةٌ (ف) لَحْيًا و لَحْيَةً مَلَاحِبَةً طماخ
مارنا۔ الْبَحَارِيَّةُ: جمار کرنا۔

اللَّحَبُ: گونگل کا درخت۔ واحد لَحْبَةٌ۔
الْمَلْحَبُ: طماخ مارا ہوا۔ جھگڑوں میں پھنسا
ہوا۔

اللَّحْجُ: آنکھ کی بری کچھڑ۔
اللَّحْزُ: تیز چھری۔

لَحِضٌ (س) لَحِضًا۔ اوپر کے موٹے پوٹے
والا ہونا۔ لَحِضَتٌ غَيْبَةٌ: آنکھ کے ارد گرد کا
متورم ہونا۔ فحش کی صفت، لَحِضٌ: آنکھ کی
صفت۔ لَحِضَاءٌ: ج لَحِضٌ۔

لَحِضُ الْكَلَامِ: مختہ کرنا۔ خلاصہ کرنا۔ کھول
کریاں کرنا اور کہا جاتا ہے "لَحِضُ لِحْيِ خَبْرِكَ"
مجھ سے اپنی خبر کو تھوڑا تھوڑا بیان کرو۔
الشَّيْءُ: خالص لینا۔

اللَّحِضُ: مہ۔ نلتنا۔ آنکھ کے پوٹے کی
موٹائی۔

اللَّحِضَةُ: آنکھ کے اندر کا گوشت۔ ج
لِحَاضٌ۔

الْأَلْحَصُ: ظاہر۔ مختصر۔

صَنَعُ لَحِضٌ: زیادہ گوشت والا تھن جس سے
دودھ مشکل سے نکلے۔ وَزَجُلٌ لَحِضٌ: اوپر کے
موٹے پوٹے والا مرد۔ اور کہا جاتا ہے "جُفْنٌ
لَحِضٌ" موٹا پوٹا۔

الْمَلْحَصُ: مفر کہا جاتا ہے "هَذَا مَلْحَصُ مَا
قَالُوهُ" یہ لوگوں کے قول کا خلاصہ ہے۔

لَحْفَةٌ (ف) لَحْفًا: زور سے مارنا۔
اللَّحْفُ: مہ۔ پتلے جھاگ۔

اللَّحْفَةُ: سفید باریک پتھر ج لِحْفٍ۔
لَحْمَةٌ (ن) لَحْمًا طماخ مارنا۔ لَحْمٌ
الشَّيْءُ: کائنا۔

لَحْمٌ (ف) لَحْمًا الرَّجُلُ: پر گوشت چہرے والا
ہونا۔

لَا حِمَّةَ لِحَاثًا و مَلَاحِمَةً: باہم لہانچہ بازی
کرنا۔

اللَّحْمَةُ: سستی۔ افسردہ ولی۔

رَجُلٌ لَحْمَةٌ و لَحْمَةٌ: افسردہ دل مرد۔ لثیم۔
اللَّحْمَةُ: سخت زمین میں دشوار گزار جگہ۔

الْمَلْحَامُ: بڑیاں۔

لَحْنٌ (س) لَحْنًا: بدبودار ہونا۔ الرَّجُلُ:
لحش کلائی کرنا۔ بن ران وغیرہ میں بدبو ہونا۔
صفت الْلَحْنُ: مؤنث لَحْنَاءٌ۔ ج لَحْنٌ۔

لَحْنَةٌ: یا ابن اللحناء کرنا۔

اللَّحْنُ: مہ غیر خیرتوں پہنچنے کے تانہ کی سپیدی۔
لَحَاهُ يَلْحُزُهُ لَحْوًا: ناک میں دوئی چڑھانا۔

لَحَاهُ يَلْحُزُهُ لَحْيًا و لَحَاهُ: مال دینا ناک
میں دوئی چڑھانا۔ حلق میں دوئی چکانا۔

لَحْيٌ يَلْحِي لَحْيًا: ہرزہ سرائی کرنا۔ کھواس
کرنا۔

لَا حِي لِحَاءً و مَلَاحِيَةً الرَّجُلُ: دوستی
کرنا۔ مخالفت کرنا۔ باہم نرمی برتنا۔ فَلَانًا
عَلَى فَلَانٍ اِكْسَانًا: بھڑکانا۔ بہ چٹل خوری
کرنا۔

الْفَيْحِيُّ الْبَحَارِيَّةُ: الصَّبِيُّ: تزکروہ روٹی کھانا
اسم لِحَاءٌ ہے۔

اللَّحَا و اللَّحْيُ و اللَّحَاءُ و اللَّحْيِيُّ: جس
سے ناک میں دوئی چڑھائی جائے۔

الْأَلْحِيُّ: ہرزہ سرا۔ کھواس کرنے والا۔
و اللَّحْيِيُّ مِنَ الْجَمَالِ: جس کا ایک گھٹنا
دوسرے سے بڑا ہو۔

اللَّحْوَاءُ: الْأَلْحِيُّ كَأَمْرٍ مَثَبٍ كَرَأْسِ
كِي چوڑے کے اوپر کا حصہ نیچے سے بڑا ہو۔

لَدَّ (ن) لَدًّا و لَدًّا و مَلَادَةً و اللَّدَّ
الرَّجُلُ: سخت جھگڑا کرنا اور غالب ہونا۔ لَدَّةٌ عَنِ
الشَّيْءِ: منع کرنا۔ لَا دَعْنَةَ: بدافعت کرنا۔

لَدَّ (ن) لَدًّا و لَدًّا و اللَّدَّ الرَّجُلُ: منہ کے
کنارے سے دو پلاٹا۔ لَدًّا لِلدَّوْدِ: منہ کے
کنارے سے پلائی جانے والی دو تیار کرنا۔

الَّذَّةُ: سخت جھگڑا کرنا۔ اللَّذَّةُ: کھانا
الَّذْوُثُ بِهِ: میں نے اس سے جھگڑا کرنے میں
خستگی کی۔

لَدَّ (س) لَدًّا: بدست جھگڑا ہونا۔ صفت الذ۔
کہا جاتا ہے "هُوَ الَّذِي يَلْدُ" یعنی وہ بدست ہی
سخت جھگڑا ہو ہے۔

لَدْدَةٌ: حیران کرنا۔ لَدْدِيَّةٌ: بدنام کرنا۔
تَلَدَّدٌ: تقسیم ہونا۔ دامن بایں دیکھنا۔ فِي
الْمَكَانِ: ٹھہرنا۔

الْقَدُّ: منہ کے کنارے سے دو پلاٹا۔

عَنِ الشَّيْءِ: ناکل ہونا۔ ٹیڑھا ہونا۔
الَّذُّ: مہ۔ یورا۔

الَّذُّ: مہ۔ سخت جھگڑا ہونا۔

الَّذُّ و اللَّادُّ و اللَّذْوُدُ و اللَّذِينِدُ: ج اَلِدَّةُ
و الْأَلَدُّ: مؤنث لَدَاءٌ۔ ج لَدَادٌ و لَدُّ و

اللذَّذُ وَاللَّذَذُ - سخت بھڑالو۔ اللذید و اللذود: دو جو منہ کے کنارہ سے نچائی جائے۔ اللذیدان: کانوں کے نیچے گردن کے دونوں طرف کے کنارے ہر چیز کے دونوں جانب۔ کہا جاتا ہے "مائلۃ عنہ مُخْتَدُّ وَلَا مُلْتَدُّ" یعنی اس کیلئے کوئی چارہ نہیں۔

المُتَلَذِّدُ - گردن۔
لذحہ (ف) لذحاً - پیٹھ پر آہستہ آہستہ جھکی رہتا۔

لذس (ن) لذسا الشئی: چاہنا۔ ہیندیبہ: بارنا۔
— فہیحجو: پھر بارنا۔

لذس الخف: پیوند لگانا۔ درست کرنا۔
الذست الأرض: کچھ نباتات اگانا۔
اللذس - ست وزم۔
اللذیس - موٹا۔ ج الذاس۔

المیلذس - سمجھلی توڑنے کا پتھر۔ ج صلاؤس۔
لذغہ (ف) لذغوا تذغوا۔ اغانا۔ اغانا۔ کہا جاتا ہے "لذغہ بکلمۃ" یعنی اس نے اسے طعن و تشنیع کیا۔

الذغ - العقوب فلائنا: ڈسنے کے لیے بھجو بھجوڑنا۔ بھجوسے ڈسوانا۔

اللاؤغ - فا۔ مؤنث لآؤغہ ج لذغ۔
اللذغۃ - لدغ کا اسم مرۃ۔
الذغ - کانائیا اس کا نوکیلا کنارہ۔
الذاعۃ من الرجال: طعن و تشنیع کرنے والا۔

اللذیع - ڈسا ہوا (نکر و مؤنث) ج لذغی و لذغاء۔ اور کہا جاتا ہے "ہم قوم لذغی ولذغاء" وہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔

المیلذغ - وہ شخص جس کی عادت طعن و تشنیع کی ہو۔

لذک (س) لذکوا لذکابہ: چیکنا۔
لذم (ض) لذما۔ طمانچہ مارنا۔ کسی بیماری چیز سے مارنا جس کی آواز سنائی دے۔

الخیز من الملة: روٹی کو بھوجھل سے نکالنا۔
— ولذم القوب: کپڑے میں پیوند لگانا۔
درست کرنا۔

الذمت علیہ الخمی: لگانا تاریخا رہنا۔

تلذم۔ بوسیدہ ہونا۔ پیوند لگانے کے قابل ہونا۔
— القوب: کپڑے میں پیوند لگانا۔

الذم۔ پریشان و مضطرب ہونا۔ الذمت القساء: نوح و اہم میں منہ پر طمانچہ مارنا۔ الذمۃ مارنا اور ہٹانا۔

الذم۔ مہ پتھر کے زمین پر گرنے کی آواز۔
الذم۔ عزت۔ قربت۔
اللاؤم۔ فا۔ ج لذم (ک) خادم و خدام

المیذام۔ پیوند۔
الذام۔ پیوند لگانے والا۔
المیذیم۔ من القیاب: پیوند لگا ہوا کپڑا۔
المیلذم۔ بیوقوف۔ ست۔ پر گوشت اُم

میلذم: بخار (— والمیلذام) سمجھلی توڑنے کا پتھر۔
لذن (ک) لذانۃ و لذونۃ۔ نرم ہونا۔ صفت لذن۔ مؤنث لذنۃ ج لذن و لذان۔ لذنت اخلاقہ: نرم اخلاق ہونا۔

لذن الشئی: نرم کرنا۔ — ہفی الأھر: مھرانا۔
لذن لؤنہ: تر کرنا۔
تلذن۔ مھرنا۔ بالممکان: اقامت کرنا۔
علیہ: دیر لگانا۔ کہا جاتا ہے "تلذنت علی زاجلتی" جبکہ وہ نہ چلے۔

المذن من الطعام: خراب گیوں جس کی روٹی اچھی نہ کیے اور کہا جاتا ہے "ہو لذن الخلیفۃ" وہ نرم طبیعت پسندیدہ اخلاق والا ہے۔
لذن ولذن ولذن ولذن ولذن۔ عند کے معنی میں طرف زمان مکان ہے۔ مگر عند سے زیادہ قرب پر ولالت کرتا ہے اور اس سے اخص ہے۔ اور مٹی ہے۔ کہا جاتا ہے "لنی الیہ لذنتہ"

مجھے اس کے پاس حاجت ہے۔
الذی الذاء۔ زیادہ ہم عمر والا ہونا۔
لذی۔ طرف مکان ہے۔ جی ہے اور معنی میں لذن کے ہے۔

المیذہ۔ ہم عمر جس کی ایک ساتھ پرورش ہوئی ہو۔ کہا جاتا ہے "ہو لذتی" وہ میرا ہم عمر ہے۔ ج لذات ولذون۔ اللذۃ: وقت ولادت۔ (کلمہ یا مادہ ولذ سے ہے) جیسے عدۃ وعدے۔

لذ (س) وض) لذأ و لذأذ۔ الشئی: فخرش مزہ ہونا۔ مرغوب ہونا۔ لذیز ہونا۔ صفت لذو لذین۔
لذ (س) لذأ و تلذذ و لذ الشئی و بہو استلذ الشئی: لذیذ ہونا۔
لذذۃ۔ لذیز ہونا۔
تلذأ۔ ایک دوسرے سے لذت اٹھانا۔
اللذ۔ مہ۔ لذیز۔ مرغوب۔ نیند۔ کہا جاتا ہے "زجل لذ" یعنی گنگو کرنے والا۔
اللاؤ۔ زیادہ لذیز۔
اللذۃ۔ خوشی۔ مزہ۔ حصول مرغوبیات۔ ج لذات۔ شراب۔
المیلذی۔ مرغوب۔ مزیدار۔ شراب۔ ج لذو لذأ۔
المیلذ۔ لذت کی جگہ۔ ج صلاؤ۔
المیلذۃ۔ خواہش۔ ج صلاؤ۔
لذت (ن) لذون و لاذب صلاؤبۃ بالممکان: اقامت کرنا۔
لذحہ (ن) لذحاً۔ سوال میں اصرار کرنا لذح الماء: بھونٹ لگانا۔
لذغ (ف) لذغاً۔ فلائنا بلسابہ: زبان سے تکلیف پہنچانا۔ لذعت الثأر الشئی: آگ کا جھلس رہنا۔ جلا رہنا۔ کہا جاتا ہے "لذغ الخب قلیہ" محبت نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی۔
لذغ البعیر: داغنے کے لوہے کے ایک کنارے سے داغنا۔ — الرجل بذکابہ: جلدی سمھنا۔
الطائر: پرندہ کا پھر پھڑا کر بازوؤں کو تھوڑا سا حرکت دینا۔
تلذغ۔ دائیں بائیں متوجہ ہونا۔ ذہن ہونا۔ تیز ذہن ہونا۔ تلذعت الثأر: آگ بھڑکانا۔
الذغ۔ درد میں سوزش ہونا۔
اللاؤغۃ۔ لاذغ کا مؤنث۔ ج لؤاغ لؤاغ الکلام: تکلیف وہ گنگو۔ کہا جاتا ہے "تعوذ باللہ من لؤاغہ" ہم اس کی تکلیف وہ گنگو سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔
الذاع۔ اسم مبالغہ۔ کہا جاتا ہے "زجل مذاع لذاع" یعنی برا خلاف وعدہ۔ اسلئے کہ زبان سے خیر کا وعدہ کرتا ہے پھر خلاف وعدگی کر

کے تکلیف پہنچاتا ہے۔

اللَّوْذِعُ وَاللَّوْذِعِيُّ - تیز ذہن - تیز خاطر - فصیح۔

اللَّادِقِيَّةُ - شام کے ایک شہر کا نام - اور نسبت کے لیے لَادِقَانِيٌّ وَ لَادِقِيٌّ۔

لَذَلْدٌ - جست و پھر تپتا ہوتا۔

اللَّذَالِدُ - جست و پھر تپتا - بھیڑتا۔

لَذِمَةٌ (س) لَذِمْنَا الشَّيْءَ: تعجب میں ڈالنا۔ بوسہ دینا۔

لَذِمَ (س) لَذِمْنَا بِالْمَكَانِ: جیسے رہنا - بِالشَّيْءِ: حریص ہونا - شیفہ ہونا۔

الَّذِمَةُ الشَّيْءِ وَبِهِ: حریص بنانا - شیفہ کرنا۔

هُ: بِفُلَانٍ: لازم کرنا۔ اَلَّذِمَ بِالْمَكَانِ: ثابت رہنا۔ اور کہا جاتا ہے "الَّذِمَ بِفُلَانٍ كَمَرَأَتِكَ" یعنی بیش کرو۔

الَّذِمَ بِفُلَانٍ: فریفتہ کیا جانا۔

الَّذِمَةُ: گھر سے جدا نہ ہونے والا۔ کسی چیز کے ساتھ بیش رہنے والا۔

رَجُلٌ لَذِيمٌ وَ لَذِيمٌ وَ مِلْدَمٌ بِالشَّيْءِ: چیز کا شوقین - المِلْدَمُ: بہادر۔

اللاذِنُ وَاللَّادِنَةُ: گوند کی ایک قسم۔ لَذِيٌّ يَلْدِي لَذِيٌّ بِالْأَمْرِ: لازم ہونا۔ جدا نہ ہونا۔ شیفہ ہونا۔

الَّذِي - اسم موصول ہے اور اس میں پانچ لغات ہیں۔ اللَّذِيَّ وَالَّذِيَّ وَالَّذِيَّ وَالَّذِيَّ وَالَّذِيَّ

وَالَّذِيَّ مَوْنَتُ النَّبِيِّ (ماہول ت س ی میں ذکر ہو چکا) تشبیہ اللَّذَانِ اللَّذَا وَاللَّذَانِجِ اللَّذِيْنَ وَاللَّذَا

دِنِ وَاللَّذَاؤِدِ: اور بعضوں نے کہا ہے کہ اللَّذُونِ حالت رقی میں اور اللَّذِيْنَ بہ حالت نصی و جری

میں۔ اور اللَّذِيَّ کی تصغیر اللَّذِيَّاتُ اور تشبیہ کی اللَّذِيَّاتُ اور جج کی اللَّذِيَّوْنَ۔

لَرَّ (ن) لَرَّوْا وَ لَرَّوْا وَ لَرَّوْا - الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: باہر ہٹنا۔ ملانا۔ لازم کرنا - الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: ملنا۔ اَلْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ بھیڑ کرنا۔ لَرَّوْا بِالرَّوْضِ:

تیز ہارنا۔

هُ: بِالْحِي كَذَا: مجبور کرنا۔ لَرَّوْا لِلَّهِ فُلَانًا: مضبوط جسم والا بنانا۔

لَارَّوْا لِرَّوْا وَ مَلَارَّوْا - چٹنا اور جھگڑنے میں تنگ

کرنا۔

الرَّوْا الشَّيْءَ: باندھنا اور چٹانا۔

الرَّوْا بِهِ: چٹنا۔ ملنا۔

الرَّوْا - مہ - دروازہ کا حلقہ۔

الرَّوْوُ وَالرَّوْازُ - مہ - دروازے کی لمبی - سخت جھگڑا۔

الرَّوْوُ - چٹنے والا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ لَرَّوْا شَرُّو لَرَّوْا شَرُّو" فلاں شر کے ساتھ چٹا ہوا ہے اس سے جدا نہیں ہوگا۔

عَيْشٌ لَرَّوْ - تنگ زندگی۔

الرَّوْوَةُ - لَرَّوْا كَمَا مَوْنَتُ لَرَّوْا لَرَّوْا - الرَّرَّوْا لَرَّوْا سِينِ كِي بُرَّوَا -

المِلْدَمُ - سخت جھگڑا - (مذکورہ مَوْنَت) لَرَّوْا (ر) لَرَّوْا وَ لَرَّوْا لَرَّوْا: الإِنَاءُ: برتن بھرنا -

المَصَابِيحَةُ: جانور کو سیر کرنا۔ لَرَّوْا فُلَانًا: کہا جاتا ہے "لَرَّوْا فُلَانًا" اس کی ماں نے اس کو جانا۔

لَرَّوْا الإِنَاءُ: برتن کا بھر جانا۔

لَرَّوْا (ن) الرَّرَّوْا - مضبوطی سے قائم رہنا۔

بِهِ: چٹنا۔ لَرَّوْا السَّنَةَ: خشک سال ہونا۔ قحط ہونا۔

لَرَّوْا (ض) لَرَّوْنَا - العَقْرُبُ فُلَانًا: چھو کا ڈنٹا۔

لَرَّوْا (س) لَرَّوْنَا وَ لَرَّوْنَا وَ لَرَّوْنَا المَلِيحُ: چپکنے والی اور سخت ہونا۔ لَرَّوْنَا الشَّيْءَ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

تَلَارَّوْنَا الشَّيْءَ: بے تہ ہونا۔

الرَّرَّوْبُ: تنگ راستہ۔

الرَّرَّوْبُ - فہ - ثابت۔ کہا جاتا ہے "صَارَ الرَّرَّوْبُ حَضْرَةً لَارَّوْبٍ" یعنی لازم و ثابت ہو گیا۔ طِينٌ لَارَّوْبٍ: ہاتھ میں چپکنے والی مٹی۔

الرَّرَّوْبُ - کم - تھوڑا۔ ج لَرَّوْبُ - کہا جاتا ہے "هُوَ عَرَّوْبٌ لَرَّوْبٌ" اس کے نہ جو رو ہے نہ جاتا۔

الرَّرَّوْبَةُ: سختی۔ قحط۔ ج لَرَّوْبُ وَ لَرَّوْبَاتُ سَنَةً لَرَّوْبَةً: سخت سال۔

المِلْدَمُ - بڑا کجوس۔ ج مَلَارَّوْبُ - لَرَّوْج (س) لَرَّوْجَا وَ لَرَّوْجَا - لیس دار ہونا۔ چپکنے والا ہونا۔ صفت لَرَّوْج - لَرَّوْجُ العَمْسَلُ بِاصْبِعَيْهِ:

شہد کا نکل میں چپکانا۔

تَلَرَّوْجٌ - چپکنے والا ہونا - البَقْلُ: نرم ہونے کی وجہ سے بعض کا بعض پر جھلنا - الذَّابَّةُ البَقُولُ: ہنری کے لیے جانا۔

الرَّرَّوْجَةُ - چپک - چمپدیگی۔

رَجُلٌ لَرَّوْجَةٌ وَ لَرَّوْجَةٌ لَرَّوْجَةٌ - گھری پر رہنے والا۔ جدا نہ ہونے والا۔

لَرَّوْجُ (س) لَرَّوْوْنَا وَ لَرَّوْوْنَا بِهِ: چپکانا - لَرَّوْوْنَا الرَّرَّوْةَ بِالْحَنْبِ: پیاس کی وجہ سے پھمپھڑے کا پلو سے چپکانا۔

لَارَّوْوْنَا لَرَّوْوْنَا وَ مَلَارَّوْوْنَا - چپکانا۔

الرَّرَّوْوْنَا بِهِ: چپکانا۔

لَرَّوْوْنَا الشَّيْءَ: چپکانا۔ بغیر مضبوطی کے کام کرنا۔

الرَّرَّوْوْنَا: قریب بہ پلو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَرَّوْوْنَا اَوِ بِلَرَّوْوْنَا" وہ میرے پلو میں ہے۔

الرَّرَّوْوْنَا - مہ - جس سے چپکایا جائے۔ جیسے لیسنی گوند وغیرہ۔ لَرَّوْوْنَا الذَّهَبِ وَ لَرَّوْوْنَا النُّحَاجِ وَ لَرَّوْوْنَا الرَّرَّوْخَامِ: دواؤں کے نام۔

الرَّرَّوْوْنَا: جماع۔

أُذُنٌ لَرَّوْوْنَا - کان جس کا کنارہ سر سے ملا ہوا ہو۔

الرَّرَّوْوْنَا وَ اللَّرَّوْوْنَا - زخم کا مرہم جو اچھے ہونے تک چپکار ہے۔

الرَّرَّوْوْنَا - قریب بہ پلو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَرَّوْوْنَا" وہ میرے پلو میں ہے۔

الرَّرَّوْوْنَا - سندر ری گھونگا۔

الرَّرَّوْوْنَا وَ الرَّرَّوْوْنَا وَ الرَّرَّوْوْنَا - خود رو گھاس جو بارش کی صبح میں پتھروں کے نیچے نکل آئے۔

الرَّرَّوْوْنَا - خاندان میں ملا ہوا۔ منہ بولا بیٹا۔

لَرَّوْا (س) لَرَّوْنَا الخُرَّجُ: بغیر اچھا ہونے گوشت کا اوپر سے برابر ہونا۔ اور یا صواب لدرک وال سملہ سے ہے۔

لَرَّوْمُ (س) لَرَّوْمًا لَرَّوْمًا وَ لَرَّوْمًا لَرَّوْمًا وَ لَرَّوْمًا لَرَّوْمًا لَرَّوْمًا: لَرَّوْمًا لَرَّوْمًا لَرَّوْمًا الشَّيْءَ: لازم رہنا - بِنَيْتَةٍ: گھر سے جدا نہ ہونا - هُ: اَلْمَالُ: واجب ہونا -

الرَّرَّوْمُ وَبِهِ: قرض دار کو چٹنے رہنا - الرَّرَّوْمُ: حکم واجب ہونا - كَذَا عَنِ كَذَا: لازم آتا۔ نتیجہ لگانا - لَرَّوْمًا الشَّيْءَ: جدا کرنا۔ تمیز کرنا۔

لَارَّوْمًا لَرَّوْمًا وَ مَلَارَّوْمًا - چٹے رہنا اور جدا نہ

ہوتا۔

الزُّومُ الزُّومَةُ الشَّيْءُ : لازم کرنا — هُ الْعَمَالُ وَالْعَمَلُ او بِالْعَمَالِ وَالْعَمَلِ : واجب کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "الزُّومُ حَضْمِي" یعنی میں اپنے محکم پر محنت میں غالب رہا۔

الْفَرْمَةُ : بمعنی لَازِمَةٌ — فَلَانًا : گردن پکڑنا — الْعَمَلُ او الْعَمَالُ : اپنے اوپر واجب کر لینا — الْفَرْيَةُ او الْعَشْرُ او غَيْرُهُمَا : مال گزارا یا عمر کا ضامن ہونا (آخری معنی میں مولد ہے) اسْتَلْزَمَ الشَّيْءُ : لازم سمجھنا۔ چاہنا۔

الزُّوَامُ - مہ - موت - حساب - بہت چٹھنے والا - فیصلہ (و الزُّومُ) فیصلہ کرنے والا۔

لِزَامٌ : بِالْبِنَاءِ عَلَى الْكُسْرِ : لگا تار - پیوستہ - کہا جاتا ہے "حَضْمٌ لِّزَامٌ" یعنی لگا تار مار۔

الزُّومَةُ - جہان ہونے والا - چٹا رہنے والا۔

الزُّوْمِيَّةُ - اسم ہے لُزْمٌ سے۔

اللازِمُ - فاعل مؤنث لَازِمَةٌ جمع لُزَامٌ - کہا جاتا ہے "صَارَ الْأُمْرُ حَضْمَةً لِزَامٍ" جیسا کہا جاتا ہے "حَضْمَةٌ لِزَابٍ"

المِلْزُومُ و المِلْزُومَةُ - لوبے یا کڑی کا ٹھنڈا ج ملازم۔

المَلْزُومُ - مفعول لازم کیا ہوا۔

لُزْنٌ (ن) لُزْنًا و لُزْنٌ (س) لُزْنًا و تَلَاوَزُنُ الْقَوْمُ : جھوم کرنا۔ بھیڑ کرنا۔

اللزْن - مہ - سخت - عینش لُزْنٌ : تنگ زندگی مانا لُزْنٌ : وہ پالی جو مشکل سے حاصل ہو۔ مَمَكَانٌ لُزْنٌ و لُزْنٌ و مَلْزُونٌ - بھیڑ وال جگہ۔

اللزْنَةُ و اللزْنَةُ - سختی لیلۃ لُزْنَةٌ : بھوک سروی یا خوف کی وجہ سے معیبت کی رات۔ ج لُزْنٌ -

زَمَانٌ الْقُرْنٌ - سخت زمانہ۔

لَسٌ (ن) لَسًا الْقَصْفَةُ : پیالہ چاہنا۔ لَسْتُ الدَّابَّةُ الْكَلْبًا : چوپایہ کا زبان کی اطراف سے چرنا — الطَّعَامُ : کھانا۔

السُّ الْمَمَكَانُ : ابتداء نباتات کا نکالنا۔

السُّاسُ و اللُّسَّاسُ - ایک سخت اور کھردری گھاس۔ اللُّسَّاسُ : ہریا دل جس کو جانور چر نہ سکے۔ اور اطراف زبان سے چرے۔

اللُّسْسُ - ہوشیار و ماہر اونٹ والے۔

لَسْبَةُ (ض) لَسْبًا الْحَيْثُ : سانپ کا ڈنڈا۔ لَسْبَةٌ بِالسَّوْطِ : کوڑے سے مارنا — هُ بِلِسَانِيهِ : برا بھلا کرنا۔ سخت سنت کرنا۔

لَسِبَ (س) لَسْبًا بِه : چپکنا — الْعَمَلُ : شد چاہنا۔

السَّبُّ الْحَيْثُ فَلَانًا : سانپ سے ڈسوانا۔ رَجُلٌ لَسْبَانٌ لِلنَّاسِ : لوگوں کو برا بھلا کہنے والا مرد۔ کہا جاتا ہے "مَا تَرَكَ لَسُونًا و لَسُونًا" یعنی کچھ نہیں چھوڑا۔

لَسَدٌ (ض) لَسَدًا و لَسِدٌ (س) لَسَدًا الْإِنَاءُ : برتن چاہنا — الْعَمَلُ : شد چاہنا — أَمَةٌ : جن کا سارا دودھ پی لینا۔

فَصِيلٌ مِلْسَدٌ : بہت چائے والا اور اونٹنی کا پیتے۔

لَسْعَةٌ (ف) لَسْعًا ذَاتًا : اور کہا گیا ہے کہ لَسْعٌ ذُكَّعٌ سے ڈنڈے کو اور لَدَّعٌ ذُنْبٌ سے ڈنڈے کو کہتے ہیں۔ بچھو کیلئے لَسْعٌ اور سانپ کیلئے تَلْدَعٌ کا استعمال ہے۔ لَسْعَةٌ بِلِسَانِيهِ : عجیب لگانا۔ گھنگو سے تکلیف پہنچانا۔ لَسْعٌ فِي الْأَرْضِ : جانہ۔ ستر کرنا۔

السَّعُ فَلَانًا عَقْرَتَنَا : بچھو سے ڈسوانا — بَيْنَ الْقَوْمِ : درخشی ڈالنا۔ بڑھکانا۔

لُسْعُ الرَّجُلِ : خانہ نشین ہونا۔

اللُّسَاعُ و اللُّسْعَةُ : لوگوں کو گھنگو سے بہت تکلیف پہنچانے والا۔

اللسبيع - ڈسوا ہوا ج لُسْبِي و لُسْبَاءُ - اللُّسُوعُ - بہت سے شکاف۔

المِلْسَعُ - ماہر راہبر۔

المِلْسَعَةُ - خانہ نشین جو گھر سے جدا نہ ہو۔

المِلْسَعَةُ - مقیم جماعتیں۔

لَسِقٌ (س) لُسُقًا و التَّسِقُ : چپکنا۔ التَّسِقُ : چپکانا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَسِقِي و لَسِيْقِي" وہ میرے پہلو میں ہے۔

المُسُوقُ : دو دو اجڑے ہونے تک چپکی رہے۔

المُلْسِقُ : خاندان میں ملا ہوا۔ منہ بولا بیٹا۔

لَسَمٌ (ن) لَسْمًا : چکھنا۔ کہا جاتا ہے "مَا لَسَمَ لِسَامًا" یعنی کچھ نہیں چکھا۔

لَسِيمٌ (س) لَسْمًا : حیا یا عاجزی کی وجہ سے

چپ رہنا۔

لَسِيمَةٌ لُسُومًا : لازم ہونا۔

السَّخْمَةُ كَلَامًا : سمجھانا۔ کلام کھانا۔ — هُ الطَّرِيقُ : راست اختیار کرنا۔ السَّمُ و اسْتَلْسَمَ الشَّيْءُ هُ : ڈھونڈنا۔

لَسِينٌ (س) لَسْنًا : فصیح و بلیغ ہونا۔

لَسْنٌ (ن) لَسْنًا فَلَانًا : بہتر بیان والا ہونا۔ برائی سے یاد کرنا۔ گھنگو میں غالب آنا۔ لَسْنَتُهُ الْعَقْرَبُ : ڈنڈا۔ — و لَسْنٌ الشَّيْءُ : کنارہ کو زبان کے کنارہ کی مانند بنانا۔ زبان کی شکل کا بنانا اور تیز کرنا۔

لَأَسْنٌ مَلَاسِنَةُ الرَّجُلِ : جھگڑے اور گھنگو میں غالب ہونا۔

الأسن فلانًا قولًا او رسالةً : پہنچانا۔ کہا جاتا ہے "الأسن فلانًا و الأسن لى فلانًا كذا و كذا" یعنی فلاں کو میری فلاں فلاں بات پہنچا دو۔

لَسْنٌ عَلَى فَلَانٍ : جھوٹ بولنا۔ انتر کرنا — الْحَمَزُ : چنگاری سے زبان کی مانند شعلہ بلند ہونا۔

اللسن - زبان - لغت - گھنگو۔

اللسن - فصاحت۔

اللسان - زبان (مذکر و مؤنث) مذکر اکثر استعمال ہوتا ہے ج الیسنة و الیسن و لیسن و لیسانات لغت۔ بیغام۔ لسان العزب : عرب کی زبان لسان القوم : قوم کا ترجمان۔ لسان الحال : زبان حال یا کسی چیز کی ظاہری کیفیت۔ لسان الصدق : اچھی شہرت۔ لسان المیزان : ترازو کا وہ حصہ جو تولتے وقت ہاتھ سے پکڑا جائے۔ لسان النار : شعلہ۔ لسان الحصل و — القور و — الکلب و — السبع و —

العضایفیر : مختلف نباتات کے نام۔

والحروف اللسانیة : ر۔ ز۔ س۔ ش۔ م۔ ض۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ ذُو لِسَانَيْنِ" یعنی فریبی دغا باز۔ منافق۔ غیبت کرنے والا۔ "و الیسنة الناس علیہ حسنٌ" لوگوں کی ثناء و تعریف اس کے حق میں اچھی ہے۔

اللسین - جو چیز زبان کی طرح نوکدار ہو۔

والأسن - فصیح بلیغ۔ مؤنث لَسْنَاءُ ج لَسْنٌ۔

<p>باندھنے کی ٹہنی۔ الثَّلْصُقُ - منقہ۔ خاندان میں ملایا ہوا۔ منہ بولا بیٹا۔ مؤنث مُثْلِصِقَةٌ۔ لُصْلَصُ التَّوْتُونَ حَوْءُ: اکبڑے کیلئے لانا۔ لَصَا يَلْصُقُ لَصْوًا - المَرْأَةُ: عورت پر تمت لگانا۔ گلیں رب۔ لَصَاةً وَ لَصَاةً الْيَتِيمِ: تمت و تک کی وجہ سے ملنا۔</p>	<p>الْمَلْصِقُ - مع۔ موندھوں کا یا دائرہ کا قریب قریب ہونا۔ اور یہ عیوبِ انسانی سے ہے۔ الْأَلْصُقُ - قریب قریب موندھوں والا۔ اللَّصَّاءُ - الْفَسْ كَامُؤْنَثٌ - تنگ پیشانی۔ وہ بکری جس کا ایک سینک آئے اور دو سرا بیچے ہو۔ ج لَصُ -</p>	<p>المَلْسِنُ - فاء - فصیح۔ بہت بولنے والا۔ المَلْسِنُ - تجرجس کو دروازہ کے اوپر کے حصے میں لگا دیتے ہیں اور اس کے نیچے گوشت کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں۔ جب کوئی درندہ آتا ہے اور اس گوشت کو لیتا چاہتا ہے تو تجرجس گر پڑتا ہے اور دروازہ کو بند کر دیتا ہے جس میں درندہ بند ہو جاتا ہے۔</p>
<p>لَعْسِي يَلْصِي لَصِيًا وَلَعْسِي يَلْصِي لَعْسِي الْيَتِيمِ: تمت و تک کی وجہ سے ملنا لَصَاةً لَصِيًا: عیب لگانا۔ وَلَعْسِي الرَّجُلُ: گنہگار ہونا۔ اللصاة: عیب۔ لُصْلَصُ لُصْلَصَةً: دائیں بائیں بہت زیادہ التفات کرنا۔ اللصلاض: ماہر راہبر۔ لُصْمَةٌ (ن) لُصْمًا تَحْتِي كَرَامًا: اصرار کرنا۔ لَصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔</p>	<p>المَلْصِقَةُ - بہت چوروں والی سرزمین۔ اسم جمع بمعنی لُصُوصٌ۔ لَصِبٌ (س) لَصَبًا - أَلْجَلْدُ بِاللَّحْمِ: گوشت کا کھال سے لاغری کی وجہ سے چمٹنا۔ أَلْحَايِمُ فِي الْأَضْبَعِ: انگوٹھی کا انگلی میں تنگ ہونا۔ الشَيْفُ فِي الْفَيْئِدِ: کھوار کامیان میں چمٹ کے رہ جانا۔ اِلْتَصَبَ الشَّيْءُ: تنگ ہونا۔</p>	<p>المَلْسِنُ - منقہ۔ زبان کی طرح نوک دار بنایا ہوا۔ المَلْسِنُ - فاء - حیرت یا فکر کی وجہ سے زبان کو دبانے والا۔ المَلْسُونُ - جھوٹا۔ باتوں کی کام چور۔ زبان پریدہ۔</p>
<p>لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔ لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔ لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔</p>	<p>اللصيب: داوی میں تنگ جگہ۔ پہاڑ کی چھوٹی گھاٹی۔ ج لُصُوبٌ و لُصَابٌ۔ اللصيب: بخل۔ تنگ اخلاق والا۔ اللواصب: گہرے تنگ کونیں۔ کہا جاتا ہے "سَيْفٌ مَلْصَابٌ" میان میں پھنس کے رہنے والی کھوار۔ طَرِيقٌ مَلْتَصِبٌ: تنگ راستہ۔</p>	<p>لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا: تھوڑا کھانا۔ لُصَا (ن) لُصَا: دھنکارنا۔ دفع کرنا۔ ہٹانا۔ اللش: مع۔ ماش۔ لُصْلَصُ: گھبراہٹ کی وجہ سے جگر وغیرہ کا کاہنا۔ الشلاض: گھبراہٹ کی وجہ سے جگر وغیرہ کا کاہنے والا۔</p>
<p>لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔ لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔ لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔</p>	<p>اللبصت واللصت واللصت: چور۔ ج لُصُوتٌ۔ لُصَعٌ (ف) لُصُوعًا الْجِلْدُ: کھال کا لاغری کی وجہ سے ہڈی پر خشک ہونا۔ لُصِفٌ (س) لُصْفًا الْجِلْدُ: کھال کا ہڈی پر خشک ہونا اور چمٹنا۔</p>	<p>لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا: رفعت کے بعد خیس ہونا۔ لَاشِي مَلَاشَاةُ الشَّيْءِ: لاشی کرنا۔ معدوم کرنا (یہ لاشی سے بنایا گیا ہے) تَلَاشِي تَلَاشِيًا الشَّيْءِ: معدوم ہونا۔ مضمحل ہونا۔</p>
<p>لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔ لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔ لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔</p>	<p>لُصَفٌ (ن) لُصْفًا الْجَحَاذَةُ: ترتیب سے جوڑنا۔ لُصْفًا وَ لُصْفًا لُصُوفًا لُؤْنُهُ: رنگ کا چمکانا۔ لُصِقٌ (س) لُصْقًا وَ لُصُوقًا وَ اِلْتَصَقَ بِالشَّيْءِ: چمکانا۔ اَلْصُقُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: چمکانا۔ يَغْرُقُوبُ البعير: زخمی کرنا۔ لِاصْفَةٍ مَلَاصْفَةٍ: چمکانا۔</p>	<p>القلاشي: مع۔ اشتمال۔ لَصٌ (س) لُصَا وَ لُصَا وَ لُصُوصِيَّةٌ وَ لُصُوصِيَّةٌ: چور ہونا۔ لَصٌ (ن) لُصَا الْبَابُ: بند کرنا۔ الشَّيْءِ: چرانا۔ خفیہ طریقے سے کرنا۔ لُصَصُ الْبَيْتَانِ: مضبوط بنانا۔ لغت ہے رُصَصٌ میں۔ تَلُصَصُ: چور ہونا۔ چوروں کی عادات اختیار کرنا۔</p>
<p>لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔ لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔ لُصَا يَلْصُقُ لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔</p>	<p>اللصق واللصق: جو شخص یا چیز قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لُصِقِي وَ بِلُصِقِي وَ لُصِقِي" وہ میرے پہلو میں ہے۔ اللصوق: زخم کا مرہم جو چپکار ہے۔ عصفور</p>	<p>اللص واللص واللص: چور۔ ج لُصُوصٌ وَالْصَّاصُ وَ لُصِصَةٌ وَ لُصَا صُ مَوْثَلِصَةٌ۔ ج لُصَاتٌ وَ لُصَايِصُ۔</p>

گر بنا دانتوں کا کھد راجا۔ چیز کا چھپانا۔
 اللَّطَاظ وَالْمَلَطَاظ۔ پہاڑ کی بلائی چوٹی کا
 کنارہ۔ پہاڑ کا پہلو۔
 اللَّطَاظ۔ وادی کا کنارہ۔
 اللَّطَاظُ قَا (م) وَالْمَلَطُ غَبِيثٌ۔ وہ شخص
 جس کے ساتھی بھی سب غبیث ہوں۔
 الْأَلَطُ۔ جس کے دانت گر گئے ہوں یا جس
 کے دانتوں کو کیڑوں نے کھا لیا ہو اور جزیں باقی
 رہ گئی ہوں۔
 الْمَلَطَاظُ۔ سمندر کا کنارہ۔ کشادہ راہ گزر
 گھر کا صحن۔ پلاستر کرنے والوں کی کرتی۔ میلن۔
 پتلی یا تھم پتلی۔ زخم جو دماغ تک پہنچ جائے۔
 وادی کا کنارہ۔
 الْمَلَطُوظُ۔ مفعول تَزَمَّ مَلَطُوظًا۔ اوندھی کی
 ہوئی ڈھال۔
 لَطَأًا (ف) لَطَأُوا وَ لَطِئَ لَطَأًا بِالْأَرْضِ :
 زمین سے چٹنا۔ لَطَأَهُ بِالْعَصَا۔ پیٹھ پر لاشی سے
 مارنا۔
 اللَّاطِقَةُ۔ اچھانہ ہونے والا پھوڑا۔ زخم جو
 دماغ تک پہنچ جائے۔ چھوٹی ٹوپی جو سر سے چپک
 کے رہ جائے۔
 اللَّطَاءُ۔ بھیرنا۔ شکاری۔
 الْمَلَطَا وَالْمَلَطَاةُ۔ سر کے گوشت اور ہڈی
 کے درمیان باریک جھلی۔
 لَطَأَهُ (ن) لَطَأًا۔ چوڑی چیز سے مارنا۔ تھپتھپ
 مارنا۔ هُجِرَ بِحَجَرٍ بِحَرَارَتِهِ لَطَأَ الشَّيْءُ حَجْرًا
 کرنا۔ الشَّيْءُ : بگاڑنا۔ خراب کرنا۔ هُجِرَ
 الْأَمْرُ : دُشْوَارَ هُوَ :
 تَلَاظَتِ الْمَوْجُ : موجوں کا ٹکرائنا۔
 الْقَوْمُ : ہاتھوں سے ایک دوسرے کو مارنا۔
 الْمَلَايِطُ۔ جسم کے وہ حصے جو ماریا بوجھ
 اٹھانے کی وجہ سے درد کر رہے ہوں۔
 لَطَخَهُ (ف) لَطَخًا۔ باطن کف دست سے
 مارنا۔ جھکی دینا۔ لَطَخَ بِهِ : زمین پر یک دینا۔
 لَطَخَ (ف) لَطَخًا وَ لَطَخَ الشَّيْءُ بِالْمَدَادِ وَ
 نَحَوِيهِ : آلودہ کرنا۔ هُجِرَ : شُرْكِي نَسَبُ
 کرنا۔
 تَلَطَّخَ : آلودہ ہونا۔ بِالْأَمْرِ قَبِيحٌ : لوث

ہونا۔ بِشَيْءٍ : برائی کا ارتکاب کرنا۔
 اللَّطَخُ۔ مہ۔ تھوڑا سا۔ کہا جاتا ہے سَمِعْتُ
 لَطَخًا مِنْ خَبْرٍ مِثْلَ تَهْوِزٍ مِنْ خَبْرٍ نَسِيٍّ وَفِي
 السَّمَاءِ لَطَخٌ مِنَ السَّحَابِ "آسمان میں تھوڑا
 سا بادل ہے۔
 اللَّطِخُ۔ گندی غذا کھانے والا۔ وہ چیز جو اپنے
 رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ میں تبدیل ہو گئی ہو۔
 اللَّطْفُوحُ۔ جس سے کسی چیز کو آلودہ کریں۔
 اللَّطْفَحَةُ۔ بیوقوف۔ ج لَطْفَحَاتُ۔
 اللَّطِيخُ۔ بیوقوف۔
 لَطَسَهُ (ن) لَطَسًا۔ طمانچہ مارنا۔ چوڑی چیز
 سے مارنا۔ لَطَسَ الشَّيْءُ : سخت کوٹنا۔ هُجِرَ
 بِحَجَرٍ : پتھر مارنا۔ الشَّيْءُ : سخت روندنا۔
 الْحَجَرُ بِالْحَجَرِ : پتھر کو پتھر سے مارنا۔
 لِأَلَسَةِ مَلَاظَسَةً۔ آلودہ ہونا۔ تھپتھپ
 تَلَاظَسَ الْمَوْجُ : موجوں کا ٹھیسے مارنا۔
 الْمَلَطَسُ : ج مَلَاطَسُ۔ الْمَلَطَسُ : ج
 مَلَاطِيسُ : ستمیل توڑنے کا پتھر۔ پتھر توڑنے کی
 سخت اور بڑی کدال۔ پتھر یا پتلی میں کھونے کا
 آلہ۔ اونٹ کا کھر۔
 لَطَعَ (ف) وَ لَطَعَ (س) لَطَعًا الشَّيْءُ
 بِبِلْسَانِهِ : زبان سے چاٹنا۔ فَلَانًا : پیچھے سے
 لات مارنا۔ لَطَعَ الْغَرَضُ : نشانہ لگانا۔ فَلَانًا
 بِالْعَصَا لَأَشَى مَارًا : عینتہ : آنکھ پر طمانچہ مارنا
 الكَلْبُ أَوْ الذِّئْبُ الْمَاءَ : پینا۔ اسْمُهُ :
 نام کو دیوان سے منادینا۔ دیوان میں نام لکھنا۔
 لَطَعَتِ الْبِئْرُ : کنوئیں کا پانی خشک ہو جانا۔ کہا جاتا
 ہے "لَطَعَ أَصْبَعَهُ" یعنی مر گیا۔
 لَطَعَ (س) لَطَعًا : دانتوں کا گرنا اور جڑوں کا باقی
 رہنا۔ صفت أَنْطَعَ۔
 تَلَطَّعَتِ الْأَيْلُ : اونٹ کا بدھاپے کی وجہ سے
 بے دانت ہونا۔
 الْأَنْطَعُ : برتن یا حوض کا سب پانی پی جانا۔
 الشَّيْءُ : چاٹنا۔
 اللَّطْعُ۔ مہ۔ تالو۔ ج أَنْطَاعُ۔
 اللَّطْفَاءُ۔ الْأَنْطَعُ : کامونٹ۔ دہلی پتلی۔ ج
 لَطَعَ۔
 اللَّطْعُ : مہ۔ ہونٹ کے اندر کی سفیدی۔

زَجَلٌ لَطْفٌ۔ کینہ آوی۔
 اللَّطَاعُ۔ کھار اگھوں کو چاٹنے والا۔
 لَطَفَ (ن) لَطْفًا وَ لَطْفَانًا وَ لَفْلَفَانًا مِرْبَانِي كَرًا
 — اللَّهُ بِالْعَبِيدِ وَ لَهُ : توفیق دینا۔ بچانا۔
 الشَّيْءُ : قریب ہونا۔
 لَطَفَ (ك) لَطْفًا وَ لَطْفًا بَارِكًا هُوَ : چھوٹا
 ہونا۔ صفت لَطِيفٌ۔ كَلَامُهُ : نرم ہونا اور کہا
 جاتا ہے "لَطَفَ عَنَهُ" چھوٹا ہونا و "لَطَفَ بِهِ"
 اس کے ساتھ مِرْبَانِي كَرًا۔
 لَطَفَ الشَّيْءُ : نرم بنانا۔ باریک کرنا۔
 لِأَلْفَةِ مَلَاظَفَةً۔ بھلائی کرنا۔ نرمی برتنا۔ نرم
 گفتگو کرنا۔
 أَنْطَفَ الشَّوَالُ : خوب صورتی سے سوال کرنا۔
 هُجِرَ بِكَلْبًا : تحفہ دینا۔ بھلائی کرنا۔ أَنْطَفَ
 الشَّيْءُ بِحَبْنِهِ : پیلوں میں کوئی چیز چھپکانا۔
 تَلَطَّفَ : غاکساری کرنا۔ یہ : جیلہ کر کے
 بھیدوں کو معلوم کرنا۔ الْأَمْرُ وَفِي الْأَمْرِ :
 نرمی برتنا۔
 تَلَاظَفَ الْقَوْمُ : باہم میل ملاپ کرنا۔
 تَلَاظَفُوا فِي الْأَمْرِ : باہم نرمی برتنا۔
 اسْتَلَطَفَهُ : لطیف پانا۔ اسْتَلَطَفَ الشَّيْءُ
 بِحَبْنِهِ : پیلوں میں کوئی چیز چھپکانا۔
 اللَّطْفُ : بھلائی کرنا۔ تحفہ دینا۔ تحفہ تھوڑا
 کھانا۔ ج الْأَطْفُ : کہا جاتا ہے "هُوَ لِأَلْفِ
 الْأَطْفِ فَلَانٌ" یہ لوگ فلاں کے اصحاب اور
 اہل ہیں۔
 اللَّطْفَةُ : تحفہ۔ ہدیہ۔
 اللَّطْفُ : مہ۔ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ : توفیق و
 عصمت خداوندی۔ ج الْأَطْفُ۔
 اللَّطِيفُ : باریک۔ نرم۔ پاکیزہ۔ مہربان ج
 لِطَافٍ وَ لَطْفَاءً۔ اللَّطِيفُ : اللہ تعالیٰ کے اسماء
 حسنیٰ میں سے ہے۔ یعنی بندوں کے ساتھ بھلائی
 اور احسان کرنے والا نیز باریک سے باریک
 امور کا جاننے والا۔ اللَّطِيفُ مِنَ الْكَلَامِ : کلام
 غامض جس کے معنی پوشیدہ ہوں۔ من
 الْأَجْرَامِ : تازک جسم۔
 اللَّطَافُ : بہت نرمی برتنے والا۔
 اللَّطِيفَةُ : لطیف کامونٹ۔ نکتہ جس سے

انسان پیدا ہو۔ ج لظائف۔

الوَاطِف۔ مِنَ الْأَضْلَاحِ۔ سینہ کے قریب پہلو کی ہڈیاں۔

الظَّفَان۔ مہربان۔ نرمی کرنے والا۔

التَّلْطِيف۔ مہ — عِنْدَ الْقِرَاءِ: حرکت کو حرف کی جانب جھکارنا۔

لَطْمَةُ (ض) لَطْمًا۔ تھپھارنا — وَبِكَذَا: چپکانا۔ لَطَمْتُ الْفَرَسَ الْفَرَسَ: ایک جانب چرو

پر سفید داغ ہوتا۔

لَطِيمٌ۔ الْفَرَسُ: گھوڑے کے ایک رخسارہ پر سفید داغ ہوتا۔ صفت لَطِيمٌ (مذکورہ مؤنث) ج

لَطْمٌ۔ لَطِيمُ الرَّجُلِ: ظلم کیا جانا۔

لَقَمَةٌ۔ زور سے تھپھارنا۔ لَقَمْتُ الْكِتَابَ: خط پر لگا کر۔

لَاظِمَةٌ لِظَامًا وَمَلَاظِمَةٌ۔ تھپھارنا۔ ایک دوسرے کو تھپھارنا۔

تَلَطَّمَ وَجْهَهُ: چہرے کا خاکستری رنگ کا ہونا۔

تَلَاظَمَتْ وَالتَّظَمَّتِ الْأَمْوَاجُ: موجوں کا تھپھیرے مارنا — الْقَوْمُ: باہم ٹھانچہ مارنا۔

الْمَلْطَمَةُ۔ لَطْمٌ كَامِ مَرَّةٍ۔ لَطْمَاتٌ۔

الْعَلِيمُ۔ ٹھانچہ زدہ۔ ایک رخسارے پر سفیدی والا گھوڑا۔ میدان گھوڑوڑوڑو کا نواں (۹) گھوڑا۔ مٹک۔ جوان اونٹ۔ لڑکا جس کے ماں

باپ دونوں مر گئے ہوں۔

الْمَلْطِيمَةُ۔ مٹک۔ مٹک کا نڈو۔ عطر فروش کا بازار۔ ج لظائم۔

الْمَلْطَمُ۔ رخسارہ۔

الْمَلْطَمُ۔ بچانے کا چھڑا۔

الْمَلْطِمُ۔ وہ موقع جہاں پر سمندر کی موجیں ٹوٹ جائیں۔

الْمَلْطَمُ۔ مضر۔ نسیم و ناکس۔

لَطْمَةُ (ض) لَطْمًا۔ تھپھارنا۔

لَطَا يَلْطُو لَطْوًا۔ بارش وغیرہ سے کسی غاری یا تھری کی بنا لینا۔

لَطَى يَلْطِي لَطْيًا الرَّجُلُ: زمین سے چٹنا۔ لَطَى يَلْطِي لَطَى الرَّجُلُ: بوجھل کرنا۔

فَلَانًا بِذَلِكَ: کسی چیز کے متعلق گمان کرنا۔

تَلَطَّى تَلَطْيًا عَلَى الْعَدُوِّ: دشمن کی غفلت کا انتظار کرنا۔

الْمَلْطَاةُ۔ زین۔ جگہ۔ پیشانی یا پیشانی کا درمیانی حصہ۔ لَطَاةُ الرَّجُلِ: مرد کا سلمان۔ کہا جاتا ہے

”الْفَقِي بِالْمَلْطَاةِ“ اس نے اپنا بوجھ اتا دیا۔

الْمَلْطَاةُ۔ چور جو تم سے قریب ہوں۔

الْمَلْطَى وَالْمَلْطَاةُ۔ سر کی ہڈی اور گوشت کے درمیان باریک جھلی۔

لَطْمَةُ (ض) لَطْمًا وَ لَطْيًا۔ لازم ہونا۔ اصرار کرنا۔ لَطْمًا بِالشَّيْءِ: چپنے رہنا۔ لَطْمًا لَطْمًا: دھکا کرنا۔

لَاظِمَةٌ لِظَاظِمًا وَمَلَاظِمَةٌ فِي الْحَزْبِ: اصرار کرنا۔

الظُّ۔ اصرار کرنا — الْمَطْرُ: لگا تار برسا۔ بِالْمَمْكَانِ: اقامت کرنا — بِالشَّيْءِ: چپنے رہنا۔

اور جدا نہ ہونا۔

تَلَاظَمَ الْقَوْمُ فِي الْحَزْبِ: ایک دوسرے کو بٹانا۔

تَلَطَّظَتْ تَلَطُّظًا الْحَيَّةُ: سخت غصہ سے سر ہلانا۔

الْمَلْطُ۔ مہ سخت عادت کا مرد۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ لَطْمٌ كَلْمٌ“ کلمہ تابع مہمل ہے۔

الْمَلْطَمَةُ۔ پیغام۔

الْمَلْطَمُ وَالْمَلْطَاظُ۔ سخت اصرار کرنے والا۔ الْمَلْطَا: تھوڑی چیز۔

تَلَطَّظَتْ لَطْلُظَةً الْحَيَّةُ زَانِمًا: سانپ کا سخت غصہ سے سر ہلانا۔

تَلَطَّظَتْ الْحَيَّةُ: سانپ کا سخت غصہ سے لرزانا۔

الْمَلْطَاظُ مِنَ الرَّجَالِ: درشت خو۔ سختی کرنے والا۔ فَصِحَ: يَوْمَ الْمَلْطَاظِ: گرم دن۔

لَطَيْتٌ تَلَطَّى لَطْيًا النَّازِ: آگ کا بھڑکانا۔

لَطَى تَلَطِيَةً النَّازِ: آگ کا بھڑکانا۔

تَلَطَّظَتْ وَالتَّلَطَّظَتْ النَّازُ: آگ بھڑکانا۔

تَلَطَّى وَالتَّلَطَّى فَلَانٌ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔

تَلَطَّظَتْ الْمَفَاذَةُ: بیابان میں گرمی کی بھڑک کا تیز ہونا — الْحَيَّةُ مِنَ السَّمِّ: چپھننا۔

الْمَلْطَى: مہ: آگ یا آگ کی بھڑک۔

لَطَى مَعْرِفَةٌ: دوزخ۔ کلمہ تائید اور طہیت کی

وجہ سے غیر منحرف ہے۔

الْعَمَّ الْمَمْكَانُ: ابتدائی روئیدگی کو اگانا۔

تَلَطَّى اللَّعَاعُ: ابتدائی روئیدگی کو کھانا۔

ابتدائی روئیدگی کو جمع کرنا (اصل تَلَعَّعَ ہے ایک عین کو یا سے بدل دیا گیا ہے)۔

اللَّعَاعُ۔ ابتدائی روئیدگی کا واحد لَعَاعَةٌ ہے اور اسی سے ہے ”إِنَّمَا الدُّنْيَا لَعَاعَةٌ“ یعنی دنیا

ابتدائی روئیدگی کی مانند ہے جس کے لیے بھا نہیں۔

اللَّعَاعَةُ۔ کاسی۔ ارزانی سال۔ دنیا ایک گھونٹ۔ لَعَاعَةٌ الْإِنَاءِ: برتن کا خاص حصہ اور

کہا جاتا ہے ”مَا بَقِيَ إِلَّا لَعَاعَةٌ“ یعنی صرف تھوڑا سا باقی رہا۔ ج لَعَاعُ۔

اللَّعَاعَةُ۔ بگلف سُرٹک لے والا۔ کہا جاتا ہے ”مُظْرَبٌ لَعَاعَةٌ“

اللَّعَةُ مِنَ التَّيْسَاءِ: خوبصورت پاک دامن عورت۔

عَسَلٌ مُتَلَعٌ۔ شد جس کا گاڑھے پن کی وجہ سے تار نہ ٹوٹے۔

لَعَبٌ وَ لَعِبٌ (س) لَعِبًا الصَّبِيُّ: رال ٹھکانا۔ لَعِبٌ (س) لَعِبًا وَ لَعِبًا وَ لَعِبًا وَ لَعِبًا كَمِيلِ

کرنا۔ مزاج کرنا۔ لذت و تفریح کے لیے کوئی فعل کرنا۔ ایسا فعل کرنا جس پر کوئی نفع مشورہ ہو — بِكَذَا: کھیل کی چیز بنانا — فِي الْأَمْرِ:

سبک سمجھنا۔ لَعِبَتْ الرِّيحُ بِالْبَدْيَارِ: گھروں پر ہوائیں قابض ہو گئیں یعنی مکانات ویران و برباد ہو گئے۔

لَعَبٌ۔ بمعنی لَعِبٌ۔

الْعَبُّ بمعنی لَعِبٌ — هُ: کھلانا یا کھیل کی چیز لانا — الصَّبِيُّ: رال ٹھکانا۔

لَاعِبُهُ مَلَاعِبَةٌ: باہم کھیلنا۔ عورتوں کے ساتھ کھیل کود کرنا۔

تَلَاعَبٌ وَ تَلَعَّبَ بمعنی لَعِبٌ کہا جاتا ہے

”لَعِبَتْ بِهِمُ الْهُمُومُ وَ تَلَعَّبَتْ بِهِمُ“ ان کے ساتھ غموں نے کھیل کود کیا یعنی ان پر غم واقع ہوئے۔

اسْتَلْعَبَتْ التَّخْلَةَ: خرما باقی رہتے ہوئے دوبارہ کھونڈا دار ہونا۔

قوم کے گھسنے تک چلا رہا لَغَبَّ الدَّابَّة: گھما ہوا پاتا۔

الْأَغْب: ناقہ۔ کمزور۔ ج لَغَب: کہا جاتا ہے "أَنَا نَسَاغِبًا لِأَخِي" ہمارے پاس بھوکا تھا کھا ہوا آیا۔

الْأَغْبِيَّة: الَّلَّغْب كَمَا سَوَّضَتْ ج لَوَّاعِب كَمَا جاتا ہے "وَبِإِخْلَافِ لَوَّاعِبٍ" یعنی نرم ہوا ہیں۔

اللَّغْبُ اللَّغْبُوبُ: کمزور۔ بیوقوف۔ اللَّغْبُ اگلے واہوں کا سوڑھا۔ کلام فاسد۔ کہا جاتا ہے "اَلْكَفُّ عَنَّا لَقَبُكَ" یعنی ہم سے اپنے کلام فاسد کو بند کرو۔ سَنَهْمُ لَغَبٌ: خراب تر شاہوا تیز۔

اللَّغْبُ وَاللَّغْبُ وَاللَّغْبُ وَاللَّغْبُ: خراب پر۔ اللَّغْبُ: گردن کے بال۔ کہا جاتا ہے أَخَذَ بِلَغْفٍ رَقِيْبِهِ یعنی اس نے اس کی گردن کے بال کو پکڑ لیا۔

اللَّغَابُ: خراب تر شاہوا تیز۔

اللَّغَابِيَّةُ وَاللُّغُوْبِيَّةُ: بیوقوفی۔ کمزوری۔

اللَّغِيْبُ: زہر ملائی ہوئی چیز جو گدھ کے پھسانے کیلئے پیلا تھیں۔ جو ملا ہو گیا ہوں (گو جی) اللَّغْفُوْنُ: ناک کا تھننا۔ ج لَغْفَانِيْنُ۔

لَغْدٌ (ف) لَغْدًا اِلَّا يَلُ الْعَوَائِدُ: بید سے راستہ پر اونٹوں کو لانا — عَنْ كَذَا: روکنا۔ فَلَانًا: کنارہ گردن کے گوشت پر مارنا۔

اللُّغْدُ ج اللُّغَادُ: وَاللُّغْدُوْدُ وَاللُّغْدِيْدُ: ج لَغَادِيْدُ: حلق کا گوشت۔ حلق کا کوا۔ کان کے اندرونی حصہ کا زائید گوشت۔ کہا جاتا ہے "بِئْسَ عِلْجٌ مِّنَ الْاَوْغَادِ صَخْمٌ اَللُّغَادُ"

اللُّغْدِيْدُ: سخت غصہ بنا۔

اللُّغْدِيْمِيُّ وَالْمُتَلْعِدِمُ: بہت کھانا۔

لَغْرٌ (ان) لَغْرًا الشَّيْءُ: چیز کو اس کے صحیح طریقے سے پھیر دینا — فِيْ يَمِيْنِهِ: قسم کھانے میں تھپس سے کام لینا (— وَاللَّغْرُ التَّزْيُوْعُ حُجْرَةٌ: جنگلی چوہے کا سوراخ کو بیچ دار کھودنا۔

لَغْرٌ وَآلَغْرٌ فِي الْكَلَامِ وَاللَّغْرُ الْكَلَامُ: کلام سہستہ کرنا۔ بیچ دار بات کرنا۔

الْأَغْرَةُ مَلَغْرَةٌ: پہلی جیسی گفتگو کرنا۔ اللُّغْرُ وَاللَّغْرُ وَاللُّغْرُ: چوہے یا جنگلی چوہے یا

گدھ کا بل۔

اللُّغْرُ وَاللُّغْرُ وَاللُّغْرُ ج الْغَارُ: وَاللُّغْرَاءُ وَاللُّغْرِيَّةُ وَاللُّغْرُوْدَةُ مِّنَ الْكَلَامِ: چیتان۔

معہ۔ پہلی۔ الْاَلْغَارُ: بیچ دار اور مشکل راستے۔ اللُّغَارُ: لوگوں کی بہت غیبت کرنے والا۔

السُّلْمُغْرُ مِّنَ الْكَلَامِ: پیچیدہ و دشوار کلام۔ اللُّغْرُوسُ: بھیڑیا۔ کھانے میں تیز مرد۔ بہت فریبی چور۔ نرمی و نازکی کی وجہ سے لہلہانے والی گھاس۔

اللُّغْرُوْسَةُ: غیر متحقق خبر۔ السُّلْمُغْرُوسُ: سچی چولی۔

لَغَطٌ (ف) لَغَطًا وَ لَغَاظًا وَ لَغَطٌ وَ لَغَطٌ الْقَوْمُ: شور کرنا۔

لَغَطٌ (ف) لَغَطًا وَ لَغِيْظًا الْحَمَامُ اَوْ الْقَطَا كِيُوْرِيَا تَهَا كَاغْرُفُوْنُ كَرْنَا۔

اللُّغَطُ: مہ۔ دروازے کے آگے کا گھن۔ (— وَاللُّغَطُ) آواز۔ شور۔ ہم آواز جو سمجھ میں نہ آئے۔ ج الْغَاظُ۔

لَغِفٌ (س) لَغْفًا: اِلَانَاءٌ: برتن چائنا۔ — الْاِدَامُ: سان کو لقمہ بنانا۔

لَغْفٌ (ف) لَغْفًا الرَّجُلُ اَوْ الْاَسَدُ: خرو یا شیر کا تیز نظر سے دیکھنا۔

لَا عَقْفَةَ مَلَاعَفَةً: بوسہ دینا۔ دوستی کرنا۔

الْغَفُّ: تیز دوڑنا۔ نظر تیز کرنا۔ چوروں کے ساتھ رہنا اور ان کے مال و متاع کا محافظ بننا۔

فَلَانًا الْاِدَامُ: سان کو لقمہ ٹکوانا۔

هُ: بِرَامَالِهِ كَرْنَا اَوْ ظَلَمُ كَرْنَا: الْغَفُّ عَلَيِّهِ: سخت ست باتیں کرنا۔

اللُّغْفَةُ: لقمہ۔

اللُّغِيْفُ: حرد کے خاص لوگ۔ چوروں کا ساتھی اور ان کے کپڑے وغیرہ کا محافظ۔ ج لَغْفَاءُ۔

اللُّغِيْفَةُ: ایک قسم کا کھانا جس کو عصیئہ بھی کہتے ہیں۔

السُّلْمُغْفَةُ: چوروں کا گروہ۔ اللُّغْفَةُ: کلام میں لکت۔

لَغَمٌ (ف) لَغْمًا الْبَعِيْرُ: جھگڑا پھینکنا — هُ: منہ چومنا — الرَّجُلُ: غیر متیقن خبر دینا۔ (— وَلَغَمٌ) فَلَانًا بِالطَّيْبِ: منہ پر خوشبو لگانا۔ لَغَمٌ (س) لَغْمًا لَغْمًا: غیر یقینی خبر دریافت کرنا۔

الْغَمُّ الدَّهْبُ وَمَا شَابَهُهُ مِّنْ كُلِّ جَوْهَرٍ مُّذَابٌ: سونے وغیرہ میں پارہ ملایا جانا۔ صفت مُلَغَمٌ۔

الْبَيْعَمُ الدَّهْبُ: سونے کا پارہ سے ملنا۔

تَلَغَمٌ بِالطَّيْبِ: ناک اور منہ پر خوشبو لگانا — الْقَوْمُ بِالْكَلامِ: گفتگو میں منہ کے کناروں کو ہلانا — الْغَمُّ بِالْعَسْبِ وَبِالشَّرْبِ: تر ہونٹوں والی ہونا۔

اللَّغَمُ: تھوڑی خوشبو۔ زبان کی رگیں۔ اللُّغَامُ: اونٹ کے منہ کے جھگڑا۔ لعاب۔

اللُّغْمَاءُ: سفید منہ والی بکری۔ اللُّغِيْمُ: بھید۔

السُّلْمُغَمُ: ناک اور منہ اور ان دونوں کا ارد گرد۔ ج خَلَاغِمُ۔

الْفَغَانُ التَّبْتُ: باتات کا گنجان اور دراز ہونا — الْاَزْحُنُ: بہت گھاس والی زمین ہونا۔

اللُّغْنُ: جوانی کا جوش۔

لَغَايَلُغُوْ لَغُوْا يَكْفُهُ: بولنا — الشَّيْءُ: باطل ہونا — الرَّجُلُ: محروم ہونا — عَنِ الظَّرِيْقِي: ہٹ جانا۔

لَغَايَلُغُوْ لَغُوْا وَ لَغَايَلُغِي وَ لَغِي يَلُغِي لَغِي وَ لَغَايَلُغُوْ لَغُوْا يَكْفُهُ: بولنا — الشَّيْءُ: باطل ہونا — الرَّجُلُ: محروم ہونا — عَنِ الظَّرِيْقِي: ہٹ جانا۔

لَغَايَلُغُوْ لَغُوْا وَ لَغَايَلُغِي وَ لَغِي يَلُغِي لَغِي وَ لَغَايَلُغُوْ لَغُوْا يَكْفُهُ: بولنا — الشَّيْءُ: باطل ہونا — الرَّجُلُ: محروم ہونا — عَنِ الظَّرِيْقِي: ہٹ جانا۔

لَغِي يَلُغِي لَغِي بِالْاَمْرِ: مشتاق ہونا — بِالْمَاءِ: بہت پانی پینا اور سیراب نہ ہونا — بِالشَّيْءِ: چٹھے رہنا اور چھانہ ہونا — الطَّيْبُ: بِأَضْرَابِهَا: پرندوں کا سر نکالنا۔ اور کہا جاتا ہے هُمْ يَلُغُوْنَ فِي الْحِسَابِ: وہ حساب میں غلطی کرتے ہیں۔

لَاغِي مَلَاعَاةُ الرَّجُلِ: ہنسی مذاق کرنا۔

الْغِي الشَّيْءُ: باطل کرنا — فَلَانًا: محروم کرنا۔

اسْتَلْغِي فَلَانًا: گفتگو کرنا۔ لغت سننا۔

اللُّغَاءُ: مہ۔ آواز۔ بیہودہ۔ بیہودہ کلام وغیرہ۔ اللُّغَةُ: ہر قوم کی کلام مصطلح جس سے وہ اپنے مقاصد کو ظاہر کرے۔ ج لَغِي وَ لَغَاتُ وَ لُغُوْنُ اور نسبت کیلئے لُغُوِي۔ عِلْمُ اللُّغَةِ: مفردات کے اوضاع کی معرفت کا علم۔ كُتِبَ اللُّغَةُ: فن

لغت کی کتابیں۔ اَهْلُ اللُّغَةِ: فن لغت کے ماہرین اور کبھی عِلْمُ اللُّغَةِ کا اطلاق علوم عربیہ کے سارے اقسام پر ہوتا ہے۔

اللُّغُو: مہ۔ بیوہ کلام وغیرہ۔ کتے کی آواز۔ کہا جاتا ہے "تَكَلَّمُ بِاللُّغُوِ وَاشْتَلَّ بِاللُّغُوِ" وہ بیوہ گھنگو اور افعال میں مشغول ہوا۔ قسم کھانے میں گناہ۔

اللاغیة: مہ۔ بیوہ کلام وغیرہ۔ کَلِمَةُ لاغِيَةٍ: قبح کلمہ۔

اللُّغَاة: آواز۔

اللُّغُوِيُّ: قفار پرندہ کاشور۔ بیوہ کلام وغیرہ۔ کہا جاتا ہے "اسْمَعُ لُغُوَاهُمْ وَلَا تَخْفُ ظُفُوَاهُمْ" ان کے بیوہ کلام کو سنو اور ان کی سرکشی سے خوف مت کرو۔

لُف (ن) لُفَا الشَّيْءِ: پلٹانا۔ جمع کرنا۔

أَلْمَيْتُ فِي أَكْفَانِهِ: میت کو کفن میں پلٹانا۔

الْكَبِيْبِيْنِ: دو لنگروں کو ملانا۔

الاحْكِى: مختلف قسم کے کھانوں کو ملا کر بری طرح سے کھانا اور اسی سے ہے "إِنَّ اَكْلَ لُفِّ

وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ" اگر کھاتا ہے تو سب ہڑپ کر جاتا ہے اور اگر پیتا ہے تو سب صاف کر دیتا ہے۔

الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ: چیز کو چیز سے ملانا جوڑنا۔

هُ حَقَقَهُ: حق کا انکار کرنا۔ منع کرنا۔ لُقِّتْ الْأَشْجَارُ غَمْجَانًا ہونا۔

لُف (س) لُفَا وَ لُفَا: پر گوشت رانوں والا ہونا۔ صفت اَلْفُ مَوْنَتْ لُفَاءً ج لُفِّ.

لُفِّ: بمعنی لُف۔ تشدید مبالغہ کیلئے ہے۔

لَأَفَّ الصَّفْرُ الصَّيْدَ: شکرے کا شکار پر ٹوٹ پڑنا اور بچوں میں کر لینا۔ کہا جاتا ہے "لَأَفَقْنَا الْقَوْمَ" یعنی ہم قوم سے مل گئے۔

أَلْفُ الظَّائِرِ زَانِسَةٌ: پرندہ کاروں میں سرکو چھالینا۔

الزَّوْجُ زَانِسَةٌ: جسے میں سرکو چھپا لینا۔

الْثَّفُ وَ تَلَفَّفَ فِي ثَوْبِهِ: کپڑے میں پلٹنا۔

عَلَيْهِ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ اَلثَّفُ التَّبَاتُ: گنجان ہونا۔ لَهْ عَلَى حَقِّ: غضبناک ہو کر لینا۔

الشَّيْءِ: گنجان ہونا۔

تَلَاَفَ الْقَوْمُ: باہم ملنا۔

اللُّفُّ: مہ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ زَا بِلْفِهِمْ وَ بِلْفَيْتِهِمْ" یعنی جماعت کے ساتھ سب آئے۔

اللُّفُّ: پارٹی۔ گروہ۔ اکٹھی قوم۔ جو ادھر ادھر سے جمع کیا جائے۔ گنجان باغ۔ ج اَلْقَافُ وَ لُقُوفٌ۔

کہا جاتا ہے "جَاءَ الْقَوْمُ وَمَنْ لُفَّ لِفَهُمْ اَوْ لُقُفَهُمْ اَوْ لُقُفَهُمْ" قوم آئی اور ان کے ساتھ ان کے گے بندھے بھی آئے۔ "وَ جَاءَ اَوَّالِقَافًا" مختلف قسم کے لوگوں کی جماعت آئی زَوْضَةٌ لُفٌّ وَ لُفٌّ وَ لُفَّةٌ وَ لُفَّةٌ وَ لُفَاءٌ وَ لُفَّانٌ باغ۔

الْبِغَافَةُ: جو چیز کسی چیز پر لپٹی جائے اول پر لپٹی ہوئی چربی۔ سگریٹ (مولدۃ) ج لُقَائِفٌ۔

اللُّفُّ: کام کرنے والے کے بازو کی رگ کا مڑ جانا۔ جس کی وجہ سے وہ کام میں بیکار ہو جاتا ہے۔

کھانے میں ملانا جلانا اور زیادہ کھانا جس چیز کو قوم یہاں وہاں سے جمع کرے۔

اللُّفَيْفُ: جھنڈو دار اور گنجان درخت مختلف قسم کے لوگوں کی جماعت جس میں شریف، رزائل، فریادار، نافرمان، قوی، کمزور سبھی قسم کے ہوں۔ اور کہا جاتا ہے "ظَعَامٌ لُّفَيْفٌ" ظلوٹ رکھناو "هُوَ لُّفَيْفٌ فَلَانٌ" وہ فلاں کا دوست ہے و "جَمْعُ لُّفَيْفٍ" ہر جگہ سے اکٹھا کیا ہوا۔

اللُّفَيْفَةُ: مجموعہ۔ اونٹ کی پیٹھ کا گوشت۔ سگریٹ۔ ج لُقَائِفٌ۔

الْأَلْفُ: بازو کی ایک رگ۔ گھنگو میں عاجز و دراندہ۔ کاموں میں عاجز و ست۔ ملے ہوئے۔

ایروں والا۔ لوگوں سے بھری ہوئی جگہ۔ مَوْنَتْ لُفَاءً ج لُفِّ۔ فَخَذَ لُفَاءً: موٹی ران۔

التَّلَافِيْفُ: گنجان گھاس۔ مِنْ الْأَمْعَاءِ وَ الدِمَاغِ فِي اِضْطِلَاحِ الطَّبِّ: ایک کے اوپر ایک لپا ہوا۔

الْمَلْفُ وَ الْمَلْفُافُ: چادر۔ الحَافُ وَ الْمَلْفُ فِي اِضْطِلَاحِ عُلَمَاءِ الْكُتُبِ بَأْتِيَةً يَكْرُجُ سِرٌّ تَارِيخِيًّا جَائَةً۔

الْمَلْفُوفُ: منح۔ ایک قسم کی نباتات۔ واحد مَلْفُوفَةٌ۔

لُفَا (ف) لُفَا وَ لُفَا الْعُودُ: بکری چیلینا۔ اللَّحْمُ عَنِ الْعَظْمِ: گوشت اتارنا۔ الرُّبِيْعُ الشَّحَابُ عَنِ وَجْهِ الْأَرْضِ: بادلوں کو پراگندہ

کرنا۔ فَلَانًا عَنِ مَزَادِهِ: رد کرنا۔ ہٹانا۔ هُ: غیبت کرنا۔ هُ حَقَقَهُ: حق سے کم کرنا۔ پورا حق دینا۔ هُ بِالْعَصَا: بلائی مارنا۔

لُفِي (س) لُفَا الشَّيْءِ: باقی رہنا۔

أَلْفَا أَلْفَاءُ: الشَّيْءِ: باقی رکھنا۔

إِلْتَفَا الْعُودُ: بکری چیلینا۔ جھلکا اتارنا۔

أَلْفَاءُ: مٹی۔ تھوڑی چیز۔ حق سے کم۔

الْفَيْفَةُ: بغیر بڑی کے گوشت کا ٹکڑا۔ ج لُفَايَا وَ لُفِي.

لُقِّتْ (ض) لُقِّتَا الشَّيْءِ: دائیں یا بائیں موڑنا۔

رَدَّاهُ عَلَيَّ عُثْبَةُ: چادر کو گردن پر موڑنا۔

فَلَانًا عَنِ زَايِه: رائے سے پھیرنا۔ التَّوْبُشُ عَلَيَّ الشَّيْءِ: پر کو تیر پر کھینچنا اتفاق لگانا۔

الزَّوَاعِي الْمَشَابِيْةُ: مارنا اور اس کی پروانہ کرنا کہ کس کو گئے۔

الْمِحَاةُ عَنِ الشَّجَرَةِ: درخت سے جھال اتارنا۔

الْكَلَامُ: بلا پروائی سے گھنگو کرنا۔ کہا جاتا ہے "لُقِّتَهُ بِكَذَا" یعنی اس نے اس کو دیا۔

لُقِّتَ الشَّيْءُ: موڑنا۔

الْتَفَّتْ وَ تَلَفَّتْ إِلَيْهِ: چہرہ پھیرنا۔

الْتَفَّتْ بِوَجْهِهِ فَيْتَةً أَوْ بَسْرَةً: جھٹلنا۔

اللُّفُّ: شلغم۔

اللُّفُّ: چیز کی ایک جانب۔ گائے۔ بیوقوف عورت۔

اللُّفُّ فِي النَّيْسِ: مینڈھے کے ایک سینگ کا ٹیڑھا ہونا۔

فِي الْإِنْسَانِ: بائیں ہاتھ سے کام کرنا۔

اللُّفَاتُ: بیوقوف۔ سخت خو۔

أَلْفَقَتَهُ: جانوروں کو پیشہ مارنے والا چرواہا۔

الْأَلْفُ: ایک بیچ دار سینگ والا کبیرا۔ مضبوط ہاتھ والا۔ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔ بیوقوف۔

بھیگا۔ مَوْنَتْ لُفَاءً ج لُفِّ.

الْفُؤْتُ: سخت خو۔ چھل خور عورت۔ اونٹنی جو دوہنے کے وقت بے قرار رہے۔ عورت جس کی نگاہ ایک جگہ نہ ٹھہرے۔

الْفَيْفَةُ: ایک قسم کا گازا حطوا۔

الْمُتَلَفِّةُ: کندھے کی بڑی کا اور کا حصر۔

اِسْتَلْفَتْ: باہر نکالنا۔ چیز کی حقیقت کو پہنچانا۔ خبر

کو چھپانا حاجت روائی کرنا۔ تمام چارے کو کھانا۔
الْأَلْفَجُ: بیوقوف۔

الْفَجْجُ: مفلس ہونا۔ بے مال و دولت ہونا۔

عَمٌّ وَغَيْرِهِ: کسی وجہ سے زمین سے چھپے رہنا۔

فَلَانٌ: محتاج بنانا۔ مجبور کرنا۔

الْفَجْجُ: ذلت۔

المُفْلَجُ والمُسْتَفْلَجُ: مفلس۔ لاغری کی وجہ سے زمین سے چھپنے والا۔ المُسْتَفْلَجُ: خوف کی وجہ سے پرالندہ دل۔

لَفَجَّ (ف) لَفَجًا فَلَانًا بِالشَّيْفِ: کموار مارنا

لَفَجَتْ (ف) لَفَجًا وَ لَفَجَاتًا: التَّارُ او

السَّمُومُ بِحِزِّهَا فَلَانًا: جھلس دینا۔

نَارًا لَفُوجًا وَ لَافِجًا: جلانے والی آگ۔ ج

لَوَافِجُ کما جاتا ہے "أَصَابَهُ مِنَ الْحَرْبِ لَفَجٌ وَمِنْ

الْبُرْدِ دَلْفَجٌ"۔

الْفَلَّاحُ: ایک قسم کا پودہ۔ واحد لَفَّاحَةٌ۔

لَفَّحَهُ (ف) لَفَّحًا فِی او عَلٰی رَأْسِهِ مَارَاتًا۔

الْفَلَّحُ مِمَّ سَارِهِ سر مارنا۔

لَفَّظَ (ض) او لَفَّظَ (س) لَفَّظًا الشَّيْءَ وَ بِالشَّيْءِ

مِنْ فِیهِ: منہ سے چھیننا۔ ڈال دینا۔ صفت مضبوط

لَفِیظٌ وَ مَلْفُوظٌ — البَحْرُ دَائِبَةٌ: دریا کا

کنارے پر چھینکا دینا — فَلَانٌ نَفْسَهُ او

عَضْبَهُ: مرنا۔ عصب سے مراد تھوک ہے جو منہ

سے چمٹ کر خشک ہو جاتا ہے) اور کما جاتا ہے

"لَفَّظْتُ الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی ہماری جانب

نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفَّظَ لِحَامَتِهِ" یعنی وہ آیا

اس حال میں کہ پیاس اور تھکن کی وجہ سے

تکلیف میں تھا) — وَ تَلَفَّظَ بِالْكَلَامِ: بولنا۔

الْفَلْفُظُ: مہم۔ کلمات جو بولے جائیں۔ کلام۔

ج اللفاظ۔

الْفَلْفُظَةُ: لَفْظًا کاسم مرہ۔ کلمہ ج لفظات۔

الْأَلْفِظَةُ: لَافِظًا کاسم مثنی۔ سمندر اس وجہ

سے کہ جو اہر کو چھینکتا ہے (ہاں باغ کیلئے ہے) چلی۔

دینا۔

لَافِظَةٌ: سمندر۔ اور یہ علیت اور تانیہ کی

وجہ سے غیر منصرف ہے۔

الْفَلْفَظُ: جو چھینکا جائے۔

الْفِلْفَظُ: ترکاری۔

الْفَلْفَظَةُ: جو منہ سے پھینکا جائے۔ جو دسترخوان

سے جھاڑا جائے۔ کسی چیز کا نحوڑا سا تیلہ۔ ج لفظاظ

و لفظاظات۔ کلام۔

الْفَلْفِظُ: چھینکل ہوئی چیز۔

الْفَلْفِظِيُّ: جس کا لفظ سے تعلق ہو۔

لَفَّعَ (ف) لَفَّعًا: الشَّيْبُ رَأْسَهُ: سارے سر کا

سفید ہونا۔ لَفَّعَتْهُ النَّارُ: بھڑک اور شعلہ پانچنا۔

لَفَّعَ: بمعنی لَفَّعَ — الْغُلَامُ: اپنی جانب کھینچ کر

بغض گیر ہونا — فَلَانٌ: بہت کھانا اور کما جاتا ہے

"لَفَّعَ رَأْسَهُ" جبکہ ڈھانپ لے۔

تَلَفَّعَ: بڑھاپا آنا۔ تَلَفَّعَتِ النَّارُ: شعلہ بھڑکانا

— الْحَرْبُ بِالشَّيْرِ: سبھی کو گھیر لینا — الْمَالُ:

مال یعنی مویشیوں کو چرنے سے لُفَّعَ پانچنا —

الْقَوْمُ عَلٰی جَبِيحِ الْعَدُوِّ: دشمن کی فوج کو گھیر

لینا اور سب کو قتل کر دینا) — وَ التَّفَّعُ: الرَّجُلُ

بِالْقُوتِ وَ الشَّجَرُ بِاللُّوزِ: لپٹنا۔ ڈھک جانا

وَ التَّفَّعُ الْأَرْضُ: بھڑی سے ڈھک جانا۔

التَّفَّعُ لَوْنُهُ: رنگ متغیر ہونا۔

الْفَلَّاعُ: چادریا کھیل۔ اونٹنی کا تھنوں میں سے

اگلے تھن۔

الْفَلَّاعَةُ وَ اللَّيْبَعَةُ: قبض کا پونڈ۔

الْمَلْفَعَةُ: چادریا کھیل وغیرہ۔

لَفَّقَ (ض) لَفَّقًا الْقُوتَ: کپڑے کو دوہرا کر کے

سینا — الْأَمْرُ: طلب کرنا اور نہ پانا۔ الضَّفْقُ:

شکار پر چھوڑا جانا اور شکار نہ کرنا۔

لَفَّقَ الْحَدِيثَ: باطل سے مزین کرنا —

الرَّجُلُ: طلب کرنا اور نہ پانا — أَلْفَقْتَيْنِ:

دونوں سرے ملا کر سینا۔ اور کما جاتا ہے "لَفَّقَ بَيْنَ

النَّوْبَيْنِ" جبکہ دوہرا کر کے سینے۔

تَلَفَّقَ بِهِ: لالچ ہونا — مَا يَنْتَهَمُ: درست

ہوتا۔

تَلَفَّقَ الْقَوْمُ: معاملات درست ہونا۔

الْبَلْفَقُ: چادور کے دوپانوں میں سے ایک پات۔

اور دو آدمی جو جدانہ ہوں۔ ان کے متعلق کما جاتا

ہے "هَمَّا الْفَقَّانُ"

الْبَلْفَاقُ: مظلوم کو نہ پانے والا۔

الْبَلْفَاقُ: دو کپڑے جو ایک ساتھ ملا کر جوڑے

گئے ہوں اور ان میں سے ہر ایک کپڑے کو لَبْفَاقُ

کہتے ہیں۔

الْمَلْفِكُ وَ الْأَلْفَكُ: بیوقوف۔ الْمَلْفِكُ:

بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔

تَلَفَّفَ: گھنگھو میں عاجز و درمندانہ ہونا۔ خوب

اچھی طرح سے کھانا — فِی قُوتِهِ: کپڑے میں

لپٹنا۔

تَلَفَّفَ بِقُوتِهِ: کپڑے میں لپٹنا۔

الْقَلْفُ وَ الْفَلْفَافُ: کزور (— و

المُتَلَفِّفُ) کلام میں عاجز و درمندانہ۔

لَقَمْتُ (ض) لَقَمًا وَ تَلَقَّمْتُ وَ التَّقَمْتُ

الْمَرْأَةُ: عورت کا تھاب ڈالنا۔ ناک پر تھاب

باندھنا۔ تَلَقَّمَتْ بِعَمَامَتِهِ: ڈھانچا باندھنا۔ لَقَمْتُ

الْمَرْأَةَ فَأَمَّا: منہ پر تھاب ڈالنا۔ لَقَمْتُ: مضبوط

باندھنا۔

الْفَلَّامُ: ناک کے اوپر کا تھاب۔

لَقَا يَلْقَوْنَ لِقَاءًا حَقًّا: حق کم کرنا —

الْحَمُّ عَنِ الْعَظْمِ: بڑی سے گوشت اتارنا۔

الْقَاءُ الْفَاءُ: پانا۔

تَلَفَّى الْأَمْرَ: تدارک کرنا۔

الْمَلْفَقَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔ ج لَفَّاقًا۔

الْمَلَّاءُ: مٹی۔ خمیس۔ حقیر اور کما جاتا ہے

"رَضِيَ فَلَانٌ مِنَ الْوَفَاءِ بِالْمَلَّاءِ" فلاں شخص

اپنے پورے حق میں سے تھوڑے پر راضی

ہو گیا۔

التَّلَافِي: مہم خون کا بدلہ حاصل کرنا۔

لَقِيَ (ن) لَقَاءً عَيْنَةً: آنکھ پر ہاتھ سے مارنا۔

صفت لَاقِيٌ ج لَفَّقَةٌ۔

اللَّقُ: مہم زمین میں شگاف۔ بلند زمین۔ بہت

بولنے والا۔ ہر جگہ اور لمبی زمین۔

الْمَلْفَقَةُ: لَاقِيٌ کی جمع۔ جگہ منہ کے گڑھے۔ کما

جاتا ہے "رَجُلٌ لَفَّقًا يَتَّقَى" بہت باتوں کی مرد۔

لَقِبَ فَلَانًا بِكَذَا: لقب دینا۔

لَاقِيَةٌ: بڑے تھاب سے گال دینا۔

تَلَفَّتْ بِكَذَا: لقب پانا۔

تَلَقَّبَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو بڑے لقب

سے گالی دینا۔

الْمَلَقَبُ: اصلی نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام جو

اپنے وضع اول کے اعتبار سے مدح یا ذمہ کی طرف

مشعر ہو۔ ج۔ القاب۔
 لَقَحَ (ف) لَقْحًا التَّخْلُ: زکجور کا شگوفہ مادہ کجور میں ڈالنا۔
 لَقَحَتْ (س) لَقْحًاو لَقْحًاو لَقْحًا التَّاقِفُو نَحْوَهَا: حاملہ ہوا۔ صفت لاقح و لَقْوَح۔ (— لَقْحًا) الخَزْبُ: سکون کے بعد ہلکا ہلکا ہلکا۔
 الْمَزَأَةُو التَّخْلَةُ: حاملہ ہوا۔
 الْقَح التَّخْلَةُ: زکجور کا شگوفہ مادہ کجور میں ڈالنا۔
 الْقُحْلُ التَّاقِفَةُ: حاملہ کرنا۔ گاجھن کرنا۔ صفت مفعول مَلْفُوْحَةٌ۔ ج مَلْفُوْحٍ۔ الْقَح بَيْنَهُمْ شَرًّا: غمنا پیدا کر دینا۔ الْقَحِيْبُ التَّوْبِيْحُ الشَّجَرُ او السَّحَابُ: بار دار کرنا۔
 لَقَحَ التَّخْلَةَ: زکجور کا شگوفہ مادہ کجور میں ڈالنا۔
 تَلَقَّحَتِ التَّاقِفَةُ: حاملہ نہ ہوتے ہوئے حاملہ جیسی معلوم ہوا۔ کہا جاتا ہے "تَلَقَّحَ زَيْدٌ عَلِيًّا" زید نے میری طرف نا کردہ گناہ کی نسبت کی — يَدَاهُ: گفتگو کرنے میں دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا۔
 التَّنَقَّحَتِ الْأُنْثَى: مادہ منویہ کو قبول کرنا۔
 اِسْتَلَقَّحَتِ التَّخْلَةَ: زکجور کے شگوفہ کو مادہ کجور میں ڈالنے کا وقت قریب آنا۔
 اللِّقَاحُ: مہ۔ زکجور کا شگوفہ جو مادہ کجور میں ڈالاجائے۔
 اللِّقَاحُ: لَقْوَحُ کی جمع۔ گھوڑے اونٹ کا مادہ منویہ۔
 اللِّقَاحُ: مہ۔ حاملہ ہونا۔
 اللِّقْحَةُ دَائِيٌّ لِأَيِّ عَتَابٍ: ج لَقَحَ و لِقَاحُ اللِّقْحَةُ: نفس۔ ج لِقَاحُ اللِّقْحَةُ و اللِّقْحَةُ: ج لَقَحَ و لِقَاحُ و اللِّقْوَحُ ج لِقَاحُ و لِقَاحُ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔
 اللِّقَاحُ: ج لِقَاحُ لِقَاحٍ: وہ ہوا جس سے درخت باردار ہو جائیں۔ وہ اونٹنی جو مادہ منویہ کو قبول کرے۔ ج لِقَاحُ۔
 اللِّقْوَحُ: وہ اونٹنی جو مادہ منویہ کو قبول کرے۔ ج لَقَحَ۔

الذَّوْفِقُ و المَلَّاقِحُ: حاملہ عورتیں۔ الذَّوْفِقُ مِنَ الرِّيحِ: درختوں کو باردار کرنے والی ہوائیں۔ بارش لانے والی ہوائیں۔ الذَّوْفِقُ: کوڑے۔
 المَلَّاقِحُ: حاملہ کرنے والے۔ واحد مَلَّاقِحٌ۔ حاملہ عورتیں۔ واحد مَلَّاقِحَةٌ۔
 المَلَّاقِحُ: مفع۔ آزمودہ کار۔
 المَلَّاقِحُ: مائیں۔ واحد مَلَّاقِحَةٌ۔ جنین۔ مادہ منویہ۔
 لَقْرَةٌ (ن) لَقْرًا: مکارنا۔
 لَقْسَةٌ (ن ض) لَقْسًا: عیب لگانا۔ صفت لَاقِسٌ۔
 لَقَسَتْ (س) لَقَسًا نَفْسُ فُلَانٍ إِلَى الشَّيْءِ: دل کھینچنا۔ مائل ہونا — نَفْسُهُ مِنَ الشَّيْءِ: جی متلانا۔ صفت لَقَسَةٌ و لَقَسٌ بِأَمْرٍ: کھینچنا۔ صفت لَقَسٌ۔
 لَاقَسَ لِقَاسًا و مَلَّاقِسَةً: ایک دوسرے کو بڑا لقب دینا۔
 تَلَقَّسَتْ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْءِ: تنگ ہونا۔
 تَلَاقَسَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو گال دینا۔
 اللَّقْسُ و اللَّاقِسُ: خارش۔
 اللَّقْسُ: لوگوں کا مذاق اڑانے والا اور برے اہانت دینے والا۔ بد خلق۔ ہر چیز کا لالچی۔ جو ایک طریقہ پر مستقل نہ رہے۔
 المَلَّاقِسُ: مبر کرنے والا۔ شَقَّ لَقْسًا: پرانی مٹک۔
 لَقَصَ (ض) لَقْصًا الشَّيْءُ جِلْدُهُ: کھال کو جلانا۔
 لَقِصَ (س) لَقِصًا الشَّيْءُ: تنگ ہونا۔ لَقِصَتْ نَفْسُهُ: بی متلانا۔
 التَّقِصُّ الشَّيْءُ: لینا۔
 اللَّقِصُ: تنگ۔ شرارت میں جلدی کرنے والا۔ بہت باتی۔
 لَقَطَ (ن) لَقَطًا: الشَّيْءُ: زمین سے اٹھانا — اَلْعِلْمُ مِنَ الْكُتُبِ: مختلف کتابوں سے حاصل کرنا — التَّوْبُ: بیوند لگانا — الظَّائِرُ الْحَبُّ: پرندہ کا چوڑے سے چکنا۔ صفت لَاقِطًا و لَقَاطًا۔
 لَاقَطَهُ لِقَاطًا و مَلَّاقِطَةً: متال ہونا۔ لَاقِطُ الْقَرْصِ: چاروں ٹانگیں پکڑ لینا۔

الْتَّقَطَ الشَّيْءُ: بغیر قصد و طلب کے ملحق ہونا — الشَّيْءُ: زمین سے اٹھانا — اللِّقَاطُ: جمع کرنا (— و تَلَقَّطَ) الشَّيْءُ: ادھر ادھر سے جمع کرنا۔
 اللَّقَطُ: اٹھانی ہوئی چیز۔ چھوڑنے وغیرہ کا پھانسی۔ واحد لَقْطَةٌ لِقَاطًا مَلْعَدٌ: سونے وغیرہ کے ٹکڑے جو کان میں ملیں۔ کہا جاتا ہے "لَقِي الْمَكَانَ لَقَطًا لِمَا شِئِيَّةٌ" یعنی مکان میں جانور کے لیے ٹھوڑا سا چارہ ہے۔
 اللَّقِطَةُ: ایک قسم کی اچھی بھری جس کے جانور حریص ہوتے ہیں۔ ج لَقَطٌ۔
 اللَّقِطَةُو اللَّقِطَةُ: وہ چیز جو تم کو راستہ میں ہڈی ہوئی لے اور تم اٹھا لو یا وہ شے متروک جس کا مالک معلوم نہ ہو۔
 اللَّقَاطُ و اللَّقَاطُ: خوش جس کو کھیتی کاٹنے والا خطا چھوڑے اور لوگ اس کو چن لیں۔ پڑی ہوئی چیز جو تمہیں لے اور تم لے لو۔
 اللَّقَاطُ: گرے ہوئے خوش کا جمع کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "ذَائِرَةٌ يَلْقَاطُ ذَائِرِي" اس کا مکان میرے مکان کے مقابل ہے۔ و "لَقِيشَةُ لِقَاطًا" میں اس سے رو دو روٹا۔
 اللَّقَاطَةُ: گرے ہوئے خوشے۔ گری پڑی ہے قیمت چیز۔ ج اللَّقَاطُ۔
 اللَّقَاطُ: نا کھیتی کٹنے کے بعد خوشے چننے والا۔ آزاد کردہ غلام۔
 اللَّقَاطَةُ: لَاقِطُ کا مؤنث۔ اور اسی سے محل ہے۔ "لِكُلِّ مَسَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ" یعنی ہر کلمہ جو صنف سے نکلے اس کیلئے کوئی نہ کوئی سننے والا ہے (مخاطبت زبان کی سمجھت کے موقع پر بولا جاتا ہے) اللَّقَاطَةُ: تزویر خرد یا عورت۔ لَاقِطَةُ الْخَصِي: پرندہ کا سنگدانہ۔
 اللَّقَاطُو اللَّقَاطَةُ: بہت اٹھانے والا۔
 اللَّقِيطُ: اٹھایا ہوا۔ نومو لو پتہ جو پھینک دیا جائے۔
 اللَّقِيطَةُ: لَقِيطُ کا مؤنث۔ تزویر خرد یا عورت۔ ج لَقَاطُ: کہا جاتا ہے: زَجَلٌ لَقِيطِي خَلِيطِي۔ چٹل کھانے کے لیے خبوں کے کھونج میں رہنے والا مرد۔

الألقاط. آوارہ و ادبائش لوگ۔ تھوڑے متفرق لوگ۔
 الملقط۔ مطلب۔ دھات کی کان۔ کہا جاتا ہے یا مَلْقَطَانُ، یعنی اے بیوقوف۔ مؤنث مَلْقَطَانَةٌ۔
 الملقط۔ جس سے اٹھایا جائے جیسے دہنہ۔ مروجہ ج ملاقط۔
 الملقاط۔ قلم۔ نقش کرنے کا آلہ۔ کڑی۔ ج ملاقط۔
 المنقوظ۔ مضمون مولود پھینکا ہوا بچہ۔ جو اٹھایا جائے۔ ج ملاقط۔
 لَقَعَ (ف) لَقَعًا الشَّيْءُ: پھینکا — فَلَانًا يَعْتَبِهِ: نظر بد لگانا۔ لَقَعْتُهُ الْحَيَّةُ: سانپ کا لٹانا۔ لَقَعَ فَلَانًا: عیب لگانا — لَقَعَهُ بِالْكَلَامِ: کلام میں غالب آنا۔
 لَقَعَ (ف) لَقَعَانًا: تیز گزرتا (— لَقَعًا) عیب دار ہوتا۔
 لَاقَعَ فَلَانًا بِالْكَلَامِ: کلام میں غالب آنا۔
 تَلَقَّعَ بِالْكَلَامِ: بکواس کرنا۔
 التَّلْعُ لَوْنُهُ: رنگ متغیر ہونا۔
 اللقاع و اللقاع: ہزرنگ کی کبھی جو لوگوں کو لاتی ہے۔ واحد لِقَاعَةٌ و لِقَاعَةٌ۔
 اللقعة اللقاعه و اللقاع و اللقاع و اللقاع و اللقاع: بیوقوف۔ لوگوں کے عیوب نکالنے والا۔ برے لقب رکھنے والا۔ بہت باتی۔ کہا جاتا ہے امرأَةٌ تَلْقَعُ و مَلْقَعَةٌ بیوہ کو عورت۔
 لَقِفَ (س) لَقْفًا و لَقْفَانًا و تَلَقَّفَ الشَّيْءُ: جلدی سے لینا۔
 لَقِفَ (س) لَقْفًا الْحَوْضُ: بیچے سے گر کر وسیع ہونا۔ صفت لَقِفٌ — الْحَائِظُ: دیوار کا گریا۔
 لَقْفَةُ الشَّيْءِ: اُچکنے کیلئے پھینکانا۔ هُ الطَّعَامُ: لگوانا۔ لَقِفَ الطَّعَامُ: لگنا۔ الْقَرْصُ: دوواگی ناگوں سے سختی سے روندنا۔
 تَلَقَّفَ الشَّيْءُ: جلدی سے لینا — الطَّعَامُ لَغْنَا — الْحَائِظُ و الْحَوْضُ: دیوار یا حوض کا منہدم ہونا۔ گریا۔ کہا جاتا ہے "تَلَقَّفَ مِنْ فِينِهِ كَذَا" جبکہ کسی سے سن کر یاد کرنے۔

اللقف۔ مہ۔ کنوئیں یا حوض کا کنارہ۔
 ج الْقَفْ: اللَقْفُ: بمعنی الْبِقَافُ و تَلَقَّفَ لِمَعْنَى جلدی سے لینا۔
 اللقافة۔ صداقت۔ ہوشیاری۔
 اللقف و اللقف و اللقف: من الرِّجَالِ چست و زبرک۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ تَقْفٌ لَقْفٌ و تَقْفٌ لَقْفٌ و تَقْفٌ لَقْفٌ"۔
 لَقَلِقُ: اللَقْلَاقُ: سارس کا آواز کرنا۔
 لَقَلِقَتِ الْحَيَّةُ: سانپ کا زبان نکالنا۔ لَقَلِقَ الشَّيْءُ: حرکت دینا۔
 تَلَقَّلِقَ: الشَّيْءُ: لہنا۔
 اللَقْلِقُ ج لَقْلِقٍ و اللَقْلَاقُ: سارس کی قسم کا ایک پرندہ ہے جس کی گردن اور ٹانگیں لالی ہوتی ہیں اور سانپوں کو کھاتا ہے۔ ذکاوت اور فطانت کے ساتھ متصف ہے۔ اور اس کی کنیت "أَبُو حَذِيحٍ" ہے اللَقْلِقُ: زبان۔
 اللَقْلَاقُ: آواز۔ شور۔
 اللَقْلَقَةُ: سارس کی آواز۔ ہر آواز جس میں حرکت و اضطراب ہو۔ اور کہا جاتا ہے "فِي لِسَانِهِ لَقْلَقَةٌ" یعنی اس کی زبان میں رکاوٹ ہے۔ ج لَقْلِقٍ۔
 حُرُوفُ اللَقْلَقَةِ: ب' ج' د' ط' ق' ظ' ز' مَلْقَلِقٌ: تیز گاہ جو ایک جگہ میں نہ ٹھہرے۔
 لَقَمٌ (ن) لَقْمًا الظَّرِيقُ وَ غَيْرُهُ: راستہ کا پاند بند کرنا۔
 لَقَمٌ (س) لَقْمًا الطَّعَامُ: جلدی کھانا ہڑپ کرنا۔ لَقْمَةٌ و الْقَمَّةُ الطَّعَامُ: لقمہ لقمہ کھانا۔ کہا جاتا ہے "الْقَمَّةُ الْحَجَرُ" یعنی اس نے اسے خاموش کر دیا۔
 تَلَقَّمَتِ الشَّيْءُ: جلدی سے کھانا ہڑپ کرنا۔
 — الْمَاءُ فِي بَطْنِهِ: پانی کا زیادتی کی وجہ سے پیٹ میں بولنا۔
 الْقَمَّةُ الطَّعَامُ: لگنا۔ کہا جاتا ہے "الْقَمَّةُ أَذْنُهُ" یعنی کچے کچے کان میں بات کی۔
 اللقم و اللقم: راستہ کا بڑا حصہ۔ راستہ کا درمیان۔
 اللقمة۔ لقم کا اسم مرہ۔
 اللقمة۔ ایک مرتبہ جتنا لگتا جائے۔ ج لقم۔

اللقيم۔ لقمہ۔
 اللقَامُ و اللقَامَةُ و اللقَامُ و اللقَامَةُ: بڑے بڑے لقمے لگنے والا۔
 زَكِيَّةٌ مَلْقَمَةٌ: بہت پانی والا کنواں۔
 لَقْنٌ (ك) لِقَانَةٌ: تیز قسم و ذکی ہونا۔
 لِقِنٌ (س) لِقَانًا و لِقْنَةً و لِقَانَةً و لِقَانِيَةً و تَلَقَّنَ الْكَلَامَ مِنْ فَلَانٍ: بالشانہ حاصل کرنا اور سمجھنا۔
 لِقْنَةُ الْكَلَامِ: بالشانہ سمجھنا۔
 الْقِنُّ الْكَلَامُ: جلدی سے یاد کرنا۔
 اللقن۔ ستون۔ کنارہ۔
 اللقائِقُ و اللقائِقَةُ: مہ۔ زود فہمی۔
 اللقن۔ زود قسم۔ تیز سمجھ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ تَقِفٌ لَقِنٌ" یعنی وہ سنی ہوئی چیز کو بہت جلدی سمجھنے اور یاد کرنے والا ہے۔
 اللقن۔ لگن (دخیل)۔
 اللواقن۔ پیٹ کا مصلحت۔
 لِقَانِيَةٌ لِقْوًا فَلَانًا: جملہ لقمہ کرنا۔
 لَقِي لِقْوًا: جملہ لقمہ کرنا۔
 اللقوة۔ ایک بیماری ہے جس سے منہ ایک جانب کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے (— و اللقوة) مادہ عقاب۔ تیز عقاب۔ ج لِقَاءٌ و الْقَاءُ۔
 الملقو۔ لقمہ زورہ۔
 لَقِيَ يَلْقَى لِقَاءً و لِقَاءً و لِقَاءَةً و لِقَاءَةً و لِقِيَانًا و لِقِيَانًا و لِقِيَانَةً و لِقِيَانًا و لِقِيَانَةً و لِقِيَانَةً و لِقِيَانَةً و لِقِيَانَةً و لِقِيَانَةً: استقبال کرنا۔ پانا۔ دیکھنا۔ ملاقات کرنا۔
 لَقِيَ تَلْقِيَةً فَلَانًا الشَّيْءُ: پھینکانا۔
 لَاقِيَ لِقَاءً و مَلَاقَاةَ الرِّجْلِ: پانا۔ ملاقات کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَاقِيَ بَيْنَ ظَرْفِي الْقَضِيْبِ" شاخ کے دونوں کنارے موڑ کر ملانا اور کہا جاتا ہے "لَوْ قِي بَيْنَهُمَا"۔
 أَلْقَى الشَّيْءَ إِلَى الْأَرْضِ: ڈال دینا — إِلَيْهِ الْقَوْلُ و بِالْقَوْلِ: پہنچانا — عَلَيْهِ الْقَوْلُ: المراء کرنا۔ پہنچانا — إِلَيْهِ الشَّيْءُ: رکھنا۔ — عَنْهُ الشَّيْءُ: ڈال دینا — إِلَيْهِ السَّمْعُ: کان لگانا — إِلَيْهِ خَيْرًا: بہتر سلوک کرنا — إِلَيْهِ بِالْأُذُنِ: یاد کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "أَلْقَيْتُ إِلَيْهِ الْمَوْدِقَةَ"

بِالْمَوَدَّةِ" میں نے اس سے محبت کی۔

تَلَقَى الشَّيْءَ: ملنا۔ استقبال کرنا — الشَّيْءُ مِنْهُ: کیسا — تَلَقَّتِ الْمَرْأَةُ: عورت کا حاملہ ہونا۔ صفت مُتَلَقٍ۔

إِنْتَلَقَى الشَّيْءَ: ملنا۔ — وَتَلَقَى الْقَوْمَ: باہم ملنا۔ وَتَلَقُوا: باہم جھڑکنا۔

إِسْتَلَقَى عَلَيَّ قَفَاهُ: جیت سونا۔

أَلْقَى: پھینکی ہوئی چیز۔ ج۔ اَلْقَاءُ۔

الْقَيْةُ وَالْمَقِيَّةُ: مہ۔ — الْقَيْةُ: لقی کا اسم مرہ۔

ج۔ لَقِيَ: کہا جاتا ہے "لَقِيْتَهُ لَقِيًّا كَمِيْرَةً" میں نے

اس سے بہت ملاقات کی۔ — اللَّقِي: پرندے۔

درود۔ تمام حیوان جو جلدی گا بھن ہو جائیں۔

الْقِيَاءُ لِقَاءُ كَاسِمٍ هُوَ۔

أَتَلَقَاءُ لِقَاءُ كَاسِمٍ: ملاقات کی جگہ۔ کہا جاتا

ہے "جَلَسَ تَلَقَاءَهُ" یعنی وہ اس کے مقابل بیٹھا

"وَفَعَلَ الْأَمْرَ مِنْ تَلَقَاءِ نَفْسِهِ" یعنی اس نے

اس کام کو خود بخود بغیر کسی کے مجبور کئے ہوئے

کیا۔

الْقَاءَةُ: راست کاریمان۔

الْقِيَّ: خیرا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ اور

اکثر استعمال شری کیلئے ہوتا ہے۔ مؤنث لَقِيَّةٌ

الْقِيَّ: آئے سانے آنے والا۔ کہا جاتا ہے

"هَذَا لَقِيَّانٌ وَلَقِيَّانٌ" وہ دونوں آئے سانے

آنے والے ہیں۔ "وَهُوَ شَقِيٌّ لَقِيٌّ" کے جملہ

میں لقی تابع سہل ہے۔

الْقِيَاءُ: خیرا شر کیلئے ملاقات کرنے والا۔ شر

میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

الْأَلْقِيَّةُ: جیتان۔ پہلی۔ ج۔ اَلْقَى: اَلْأَلْقَى:

سختیاں۔

الْمَلْقَى وَالْمَلْقَى: ملنے کی جگہ۔

الْمَلْقَى: مَلْقَى کی جمع۔ مَلْقَى: اَلْأَلْقَى:

پھوٹوں کے ملنے کی جگہ۔

التَّلَاقِي: مصیوئم التَّلَاقِي: قیامت کا دن۔

الْمُتَّلَاقِي: فا۔ اوزان شعر میں سے ایک

وزن۔

الْمَلْقَى: چیز ڈالنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا

مَلْقَى الْكُنَّاسَاتِ" یہ کوزا کرکٹ ڈالنے کی جگہ

ہے۔ و "قِيَاءُ فَلَانٍ مَلْقَى الرَّحَالِ" فلاں کا

مخن دار کبادوں کے اتارنے کی جگہ ہے۔ کہنا ہے

اس سے کہ فلاں برا مسان نواز ہے۔

الْمَلْقَى وَالْمَلْقَى: خیرا شر کے لیے

ملاقات کرنے والا۔ شر میں زیادہ استعمال ہوتا ہے

اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَلْقَى" فلاں مصائب سے

آزایا ہوا ہے۔ وَالشَّجَاخُ مَوْقَى وَالْجَبَانُ

مَلْقَى كَمَا جَاءَتْ" هُوَ جَارِيٌّ مَلْقَى" وہ میرا

مقابل بڑوسی ہے۔

لَكْدَةُ (ن) لَكْدًا: گدی پر مکا مارنا۔ بھینٹنا۔ لَكْدٌ

الذَّحْمُ: گوشت کو بڑی سے جدا کرنا — الشَّيْءُ:

ملنا — الْجُلْدُ: لک سے کھال رکتنا۔

إِنْتَلَقَ الْوَرْدُ: گھاٹ پر آنے والوں کا بھیڑ کرنا

— الْفَسْكَوْرُ: لشکر کا آپس میں ملنا۔ نجوم کرنا —

فِي كَلَامِهِ: غلطی کرنا — فِي حُجَّتِهِ: دربر لگانا۔

الْبِكَاكَ: بھیڑ۔ اثر وہام۔ سخت گوشت والی

اُونٹنی ج۔ لَكَّكَ وَلِكَاكَ۔

اللَّكْدُ: مہ۔ گوشت۔ ایک سرخ رنگ جس سے

کھال رنگتے ہیں۔ ایک نباتات جس سے گوند

بناتے ہیں — عِنْدَ حُسْبَابِ الْمُؤَلَّدِيْنَ: لاکھج

الْكَاكُ وَلُكُوْكَ:

اللَّكْ وَاللَّكْ: نباتات مذکور کا عصارہ یا اس کی

تھمٹ۔ لک سے رنگی ہوئی کھال کا چمیل۔ سخت

پر گوشت۔

اللَّكْدَةُ: شدت۔

اللَّكْدَاءُ: مِنَ الْجُلْدِ: لک سے رنگی ہوئی

کھال۔ وَجُلٌّ لَكِيٌّ: موٹا و سخت گوشت والا

آدمی۔

اللَّكِيْكُ: مہجان لشکر۔ سخت گوشت۔ سخت اور

موٹے گوشت والا۔ قَطْرَانٌ: ایک کمزور درخت۔

ج۔ لِكَاكَ۔

الْمَلْكُوكُ: سخت موٹے گوشت والا۔

مَسْكِرَانٌ مَلْتَكٌ: مست جو مستی کی وجہ سے ٹک

ہو گیا ہو۔

لَكْدَا (ف) لَكْدًا بِالشَّوْطِ فَلَانًا: کوڑے سے

مارنا۔

— فَلَانًا: بچھارنا — بِدِ الْأَرْضِ: زمین پر پک

رینا — الرَّجُلُ: پورا جن دینا۔

لَكِيٌّ (س) لَكْدًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا —

فَلَانٌ: لازم ہونا۔ چمٹنا۔

تَلَكَّدًا تَلَكَّدًا عَلَيْهِ: عذر کرنا۔ ہمانہ کرنا —

عَنِ الْقَمْرِ: دربر کرنا۔ توتف کرنا۔ بچھاپنا۔

لَكْدَةُ (ن) لَكْدًا بِالشَّوْطِ: کوڑے سے مارنا۔

لَكْتُ فَلَانًا: طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا۔

لَكَيْتُ (س) لَكْدًا الْبَهِيْمُ: مہ میں پھنسیوں

والا ہونا — الْوَسْخُ عَلَيْهِ يَوْمَهُ: میل جتنا۔

اللَّكْتُ: مہ۔ دودھ کا میل جو دودھ کے برتن

کے کناروں پر جم جائے۔ اُونٹ کے مہ کی

پھنسیں۔ نَالَقَةُ لَكْدَةُ: موٹی اُونٹنی۔

اللَّكَاكُ: اُونٹ کے مہ کی پھنسیں۔ چونے

کے پھینکنے والے پتھر۔

اللَّكَاكِيُّ: بہت سفید۔

اللَّكَاكُ: چونہ بنانے والا۔

لَكْحَمَةُ (ف) لَكْحَامًا: مکارنا۔

لَكْدَهُ (ن) لَكْدًا: ہاتھ سے مارنا۔ ہٹانا۔

لَكْدُ (س) لَكْدًا الْوَيْسُخُ عَلَيَّ فَلَانٌ وَبِهِ:

میں جتنا چمٹنا۔ لَكْدَةُ الشَّعْرُ: بالوں کا گتھا ہوا ہونا۔

لَا كَدَ الْعُلُ: طوق سے گئے رہنا — قَيْدُهُ:

بیزی کی وجہ سے اچھی طرح سے نہ چل سکتا

فَلَانًا: لازم ہونا۔ چمٹنا۔

تَلَكَّدَ فَلَانٌ: موٹے گوشت والا ہونا۔

التَّشْيُّ: چمٹنا۔ بِهْ اَوْ عَلَيْهِ الْوَسْخُ: میل کام

جانا — فَلَانًا: گردن میں ہاتھ ڈالنا۔

إِنْتَلَكَدَ فَلَانًا وَفَلَانٌ: چمٹنا اور جدا نہ ہونا۔

الْمَلْكِيْدُ: بد خلق۔ بخیل۔

الْأَلْكِدُ: کینہ قوم سے ملنا ہوا۔

الْمِلْكِيْدُ: کوٹنے کا دست۔

لَكْدَهُ (ن) لَكْدًا: مکارنا۔

لَا كْرَهُ: مکا بازی کرنا۔ ایک دوسرے کو مکا

مارنا۔

تَلَا كَرًا: ایک دوسرے کو مکارنا۔

الْبِكَاكَ: جھجھکا جس سے چرخی کے دھرے کو

ٹک کرتے ہیں۔

الْمَلْكِيْرُ: بخیل۔

الْمَلْكُوْرُ: دلیل۔ دروازوں سے ہٹایا ہوا۔

لَكِيْشٌ: کہا جاتا ہے "وَجُلٌّ شَكِيْشٌ لَكِيْشٌ"

یعنی عروہ و شوہر غر۔ سرکش نافرمان۔

اور کبھی ہمزہ اور لم کے درمیان واؤ اور فامحی لاتے ہیں۔ جیسے اَلْمَمَّ اَقْلَمْتُ لَكَ اَوْ لَمْ اَوْ ذَبَكَ۔

لَمَّا۔ تین صورتوں سے مستعمل ہے۔
(۱) لَمَّ کی طرح فعل مضارع کو ماضی حقیقی کے معنی میں کرتا ہے مگر مترادف ذیل پانچ باتوں میں فرق ہے۔

(الف) حرف شرط کے ساتھ نہیں آتا مثلاً اِنَّمَا لَمَّا نَقَمْتُ نَمَّيْتُ كَمَا جَاءَتْ۔
(ب) لَمَّا کے معنی میں استغراق ہے اور لَمَّ کے معنی میں انقطاع جیسے لَمَّ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا۔ اور اس وجہ سے "لَمَّ يَكُنْ فَمَّ كَانَ" اس کا مترادف ہے اور "لَمَّا يَكُنْ فَمَّ كَانَ" نہیں کہہ سکتے۔

(ج) لَمَّا کا معنی اکثر حال کے قریب ہوتا ہے بخلاف معنی لَمَّ کے۔

(د) لَمَّا کا معنی متوقع ہوتا ہے بخلاف معنی لَمَّ کے۔

(ه) لَمَّا کے معنی کو قرینہ کی بنا پر حذف کیا جاتا ہے جیسے "فَجِئْتُ قَبْرَهُمْ بَدْعًا اَوْ لَمَّا" یعنی لَمَّا اَكُنْ بَدْعًا اَقْبَلَ ذَلِكْ اَوْ وَصَلْتُ اِلَيْهِ بَدْعًا اَدْوَلَمْ" یعنی لَمَّ اَذْخَلَهَا كَمَا جَاءَتْ نَمَّيْتُ۔

(۲) لَمَّا ماضی کے ساتھ محض ہے۔ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے جس میں سے فعل ثانی کا وجود فعل اول پر موقوف ہے جیسے لَمَّا جَاءَتْ لَمَّيْتُ اَكْرَمُهُ اَوْ اِسْ صَوْرَتِ مِثْلِ اِسْ كَوْ حَرْفِ وُجُودِ لَوْجُوْدِ كَمَا جَاءَتْ (اور بعض حرف وجوب لوجوب کہتے ہیں) اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ فعل کیلئے طرف ہے جو غیر کے واقع ہونے سے واقع ہو۔ اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ جہن کے معنی میں طرف ہے۔

(۳) لَمَّا حرف اشتراء ہے الا کے معنی میں۔ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے "اِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْنَهَا حَافِظٌ" ان لوگوں کی قرأت میں جو ایم کو مشدود پڑھتے ہیں۔ اور ماضی لفظ پر داخل ہوتا ہے جیسے اَنْشُدَكَ اللّٰهَ لَمَّا فَعَلْتِ لَمَّيْنَا مَا اَسْنَا لَكَ الْاَفْعَلِكِ۔

لَمَّ (ن) لَمَّا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَمَّ اللّٰهُ شَعْتٌ فُلَانٍ" یعنی اللہ تعالیٰ غلام

خَفَّ لَكَ اَمْ وَمَلِكُمْ وَمَلِكُمْ۔ سخت کمر جو پتھر کو توڑے۔

المَلِكُمْ۔ بیوند لگایا ہوا۔ چری موزہ۔
لَكَنَّ (س) لَكَنَّوْا لَكَنَّوْا وَ لَكَنَّوْا وَ لَكَنَّوْا وَ لَكَنَّوْا: گفتگو میں اٹکنا۔ ہٹلانا۔ صفت اَلَكَنَّ مَوْثُ لَكَنَّاءِ لَكَنَّوْا۔

تَلَاكَنَّ فِي كَلَامِهِ: ہنساتے کیلئے ہٹلانا۔
الْمَلِكَةُ: مصہ۔ ہٹلانی۔ تلاءت۔

لَكَنَّ: اس کی اصل لاکن ہے۔ الف کتابت میں محذوف ہے پڑھنے میں نہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) یہ کہ عقیدہ سے مخفف ہو اس صورت میں عمل باطل ہوتا ہے اور حرف ابتداء ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور کبھی واو کے ساتھ بھی ہوتا ہے جیسے قَامَ زَيْدٌ لَكَنَّ عَمْرُوً وَ جَالِشٌ۔

(۲) یہ کہ اصل وضع سے خفیف ہو اور اس وقت یہ حرف عطف ہے اگر عطف جملہ علی الجملہ ہو تو واؤ لانا ضروری ہے۔ اور اگر اس کے بعد مفرد ہو تو واجب ہے کہ واؤ نہ آئے اور اس سے پہلے نفی یا نہی کا ہونا ضروری ہے جیسے "مَا قَامَ زَيْدٌ لَكَنَّ عَمْرُوً" و "لَا تَضْرِبْ زَيْدًا لَكَنَّ عَمْرُوً"۔

اللَكَنَّ: لگن۔ ج. الکان۔ (دخیل)

لَكَنَّ: اس کی اصل لاجن ہے۔ الف کتابت میں محذوف ہے پڑھنے میں نہیں۔ اور یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اور استدراک یعنی دفع توہم کیلئے آتا ہے۔

جیسے "قَامَ الْقَوْمُ لَكَنَّ زَيْدًا جَالِشٌ" اور کبھی تاکید کیلئے جیسے لَوْ زَاوِي زَيْدٌ لَكَنَّ مَنَّهُ لَكَنَّ لَمَّ يَجِيئُ لَوْ سَ جَوْنِي سَمَّجِ مِثْلِ اَتَى مِثْلِ اِسْ كِ لَكَنَّ سَ تَاكِيْدٌ هُوَ مِثْلِي۔

لَكَنَّ يَلْكُنِي لَكَنَّيْ: مشتاق ہونا۔ چمٹنا۔ صفت لَكَنَّيْ: لَكَنَّيْ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

اللاکھی۔ عیب جو الایمک کا مقولوب ہے) لَمَّ: حرف جزم ہے۔ فعل مضارع کو ماضی حقیقی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لَمَّ يَأْكُلُ اِسْ نَمَّيْتُ نَمَّيْتُ كَمَا جَاءَتْ (اور لم پر ہمزہ استہمام داخل ہوتا ہے۔ لم کا عمل باقی رہتا ہے اور تقریر و توجع کا فائدہ دیتا ہے جیسے "اَلَمْ اَقْلَمْتُ لَكَ" کیا میں نے تم سے نہیں کہا۔

لَكَنَّ (ض) لَكَنَّا۔ مکارنا۔
لَكَنَّ (ن) لَكَنَّا۔ مکارنا۔

لَكَنَّ (ف) لَكَنَّا الْعَرَبُ: بھوکاؤ سالکف الزَّجَلُ: سخت ستانا — الْوَلَدُ: بچے کا دودھ چھونے کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَرَكَّنْهُ يَلْكُ" میں نے اس کو کھانا پینا چھوڑا۔

لَكَنَّ (س) لَكَنَّوْا وَ لَكَنَّوْا: لَمَّ ہونا۔ بیوقوف ہونا — لَكَنَّا عَلَيْهِ الْوَسْخُ: میل جتنا۔ کہا جاتا ہے اِنَّمَا لَكَنَّاعُ: جنی علی التکر: یعنی اسے لیسہ اور ندادی میں استعمال ہوتا ہے۔

زَجَلٌ لَكَنَّاعٌ: لَمَّ و کینہ مرو۔
الْمَلَكَاةُ: ایک قسم کا کانٹے دار پودہ۔ ج. لَكَنَّاعٌ۔

اللکھ۔ پستہ قدر۔
اللکھ۔ کینہ۔ اور کہا جاتا ہے نداء کی صورت میں یا لکَّ اور نداء تشبیہ کی صورت میں یا فَوَّی لکَّ۔ اور معرف کی صورت میں غیر منصرف ہوگا۔ اس لیے کلمہ الکنع سے معدول ہے۔ اللکھ: غلام۔ بیوقوف۔ گھوڑے کا بچہ۔ گدھے کا بچہ۔ چھوٹا بچہ۔ میلا کچلا۔ گھوڑا۔ یا وہ گھوڑا جس کے دانت گر گئے ہوں۔

اللکھ۔ کینہ۔ گھوڑی۔
الالکھ۔ مؤنث لکَنَّاعِ ج. لَكَنَّاعِ وَ اللکھوع وَ اللکھیع: کینہ۔ الالکھ: وہ گھوڑا جس کے دانت گر گئے ہوں۔

المَلَكَنَّانِ: کینہ۔ مؤنث مَلَكَنَّانَةٍ۔
اللکھک۔ پستہ قدر — وَ اللکھایک، مونا اُونٹ۔

اللکھاف۔ خوگیر۔
لَكَنَّ (ن) لَكَنَّا۔ مکارنا۔ ہٹانا۔ کہا جاتا ہے "لَكَنَّ الشَّيْبُ عَرَضَ النَّجْبِ" سیلاب نے دامن کوہ میں نشان چھوڑا۔

لَا كَنََّةَ مَلَا كَنََّةَ: ایک دوسرے کو مکارنا۔
اَلتَّكَنَّ: بعض کا بعض کو طمانچہ مارنا۔

تَلَا كَنََّا: ایک دوسرے کو طمانچہ مارنا۔
اللکھمہ۔ گھونسا۔ مکا۔

زَجَلٌ مَلِكُمْ: بست گھونسنے مارنے والا۔
المَلِكُومُ: مفع مظلوم۔

کے مختلف و پرانہ امور کو درست کر دیں۔ لَمْ
يُفْلَانِ كَسِي كَيْسٍ اَوْ اَكْرَانِ اَوْ اَكْرَانِ اَوْ اَكْرَانِ
لَمْ فُلَانٌ: کچھ جنوں لاحق ہونا۔ صفت
مَلْمُومٌ۔

الْمَجْمُوعَةُ كَمَا مَرَكَبٌ هُوَ الْغَلَامُ:
بلوغ کے قریب پہنچنا۔ صفت فُلْمٌ۔ اَلْمَتِ
الْمُخَلَّةُ: چنگلی کے قریب ہونا — یہ مرض:
مرض لاحق ہونا — بِالْقَوْمِ وَعَلَى الْقَوْمِ: آکر
اتر پڑنا — بِالْمَعْنَى: سمجھ لینا — بِالذَّبِّ:
گناہ کرنا — الشُّي: قریب ہونا — بِالْأَمْرِ:
غور نہ کرنا — بِالطَّعَامِ: کھانے میں اسراف نہ
کرنا اور کبھی کاذ کے معنی میں استعمال کیا جاتا
ہے جیسے "الْمُ يَقَعْلُ كَذَا" بمعنی كَاذٌ يَقَعْلُ
كَذَا۔

اَلْمُ فُلَانًا: زیارت کرنا — بِالْقَوْمِ: آکر
اترنا۔

الْأَلَمَةُ: نظریہ۔ ہر گھبراہٹ اور خوف کی چیز
کما جاتا ہے "أَعْيُنُهُمْ مِنْ كُلِّ هَامَةٍ وَ لَأَمَةٍ" کما
جاتا ہے "هُوَ يُرْوَدُ لَأَمًا" وہ ہم سے نادمہ سے
لامات کرتا ہے۔

اللَّمُّ: ہم سے ہمار جماعت۔
اللَّمَمُ: تھوڑی سی دیوانگی۔ گناہ کے قریب
ہونا۔ چھوٹے گناہ۔

اللَّمْعَا: ایک قسم کی چمچلی۔
اللَّمْعَةُ: لَمْ کا اسم مرہ۔ تخی۔ جمع شدہ چیز۔ کما جاتا
ہے "أَصَابَتْهُ لَمْعَةٌ مِنَ الْجِنِّ" یعنی اس پر جنات
کا کچھ اثر پہنچا۔ اللَّمْعَةُ: زمانہ۔ اور کما جاتا ہے
"لِلشَّيْطَانِ لَمْعَةٌ" یعنی شیطان کے لیے قربت
ہے۔

اللَّمْعَةُ: ساتھی۔ ہم سفر۔ کما جاتا ہے "لَا
تَسَافِرُوا حَتَّى تُصَيِّبُوا لَمْعَةً" مامت سفر کرو
یہاں تک کہ ہم سفر نہ ہو۔ موسیٰ (واحد و جمع)
اللَّمْعَةُ: بالوں کی زلف جو کانوں کی لوسے تجاوز
ہو۔ پرانہ ہال۔ ج۔ لَمَمٌ و لَمَامٌ۔

الْمَلْمَةُ: ہر چیز میں سے سخت۔ کما جاتا ہے
"زَجَلٌ مَلْمَةٌ" اپنے قبیلہ کے لوگوں کو جمع کرنے
والا۔ "و زَجَلٌ مَلْمَةٌ" لوگوں کے امور کی
اصلاح اور عموماً ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا

مرد۔
الْمَلْمَةُ: دنیاوی مصیبتوں میں سے سخت
مصیبت۔ درخت خرما جو پکے کے قریب ہو۔
الْمَلْمُومُ: جس کو تھوڑی سی دیوانگی ہو۔ گول
جمع کیا ہوا۔

كَيْبِيَّةٌ مَلْمُومَةٌ: عجمان فوج۔ صَخْرَةٌ مَلْمُومَةٌ:
سخت گول چٹان۔

لَمَاءٌ وَ لَمَاءٌ عَلَيْهِ (ف) لَمَاءٌ: ہاتھ ڈالنا —
الشُّي: سب لے لینا۔ دیکھنا۔ یہ: مشتمل ہونا۔
اور کما جاتا ہے "مَا لَمَأْنَا فَنَهْ بِكَلِمَةٍ" یعنی کسی
قیح بات کے بولنے کو وہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا۔
النَّمَا: اللبص علی الشئی و بالشئی: چور کا کسی
چیز کو چوری سے لے جانا — عَلَي حَقَبِهِ: حق کا
انکار کرنا۔ اَلْمَعَاتِ الدَّوَابُّ الْمَكَانُ: جانوروں کا
جگہ کو خالی چھوڑ دینا۔ کما جاتا ہے "كَانَ بِالْأَرْضِ
مَرَعَى فَهَاجَتِ الدَّوَابُّ فَالْمَعَاتُ" زمین میں
چراگاہ تھی چوپائے پل پڑے — عَلَي الشُّي:
مشتمل ہونا — بِمَا فِي الْحَفَنَةِ: اپنے لیے خاص
کر لینا۔ کما جاتا ہے "مَا أَذْرِي أَيْنَ الْمَاءِ مِنْ بِلَادِ
اللَّهِ" مجھے نہیں معلوم کہ کہاں گیا۔

تَلَمَّاتٌ تَلْمُؤًا الْأَرْضُ بِهِ وَ عَلَيْهِ: گھیر لینا۔
تَلْمًا وَ التَّمَا بِمَا فِي الْحَفَنَةِ وَ التَّمَاءُ: اپنے
لئے خاص کر لینا اور غالب ہونا۔
الْأَشْيُ لَوْنُ الزَّجَلِ: رنگ متغیر ہونا۔

الْمَلْمُومَةُ: جگہ جو لی جائے یا جہاں کوئی چیز پائی
جائے۔ جال۔

لَمَحَ (ن) لَمَحَ الشُّي: منہ کے اطراف سے
کھانا — الْمَرَاةُ: جماع کرنا۔ کما جاتا ہے "مَا
لَمَحُوا ضَيْفَهُمْ شَيْئًا" انہوں نے اپنے سمان کو
ناشدہ نہیں دیا۔

تَلْمَحَ الزَّجَلُ: غذا سے پہلے کچھ کھانا۔ کما جاتا
ہے "زَأَيْتُهُ يَتَلْمَحُ بِالطَّعَامِ" میں نے اس کو
دیکھا کہ وہ کھانے کو چکھ رہا تھا۔

الْمَلْمَجُ وَالْمَلْمُوجُ: تھوڑی خوراک۔ کما جاتا
ہے "مَا تَلْمَحْتِ عِنْدَهُ بِالْمَلْمَجِ" یعنی میں نے
اس کے پاس کچھ نہیں چکھا۔

الْمَلْمَجُ وَالْمَلْمِجُ: بہت کھانے والا۔
کما جاتا ہے "سَمِجٌ لَمَجٌ وَ سَمِجٌ لَمَجٌ وَ

سَمِجٌ لَمِجٌ" یعنی بہت برا۔

اللَّمْحَةُ: غذا سے پہلے کا ناشہ۔ ج۔ لَمَحٌ۔
الْمَلْمِجُ: منہ کے ارد گرد۔

زَمِجٌ مَلْمِجٌ: نرم و چھانیزہ۔

لَمَحَ (ف) لَمَحَ النَّصْرُ: نگاہ اٹھانا —
الرَّجُلُ الشُّي وَالْمَلْمِجُ الشُّي: دزدیدہ نظر سے
دیکھنا۔ اور اسم اللَّمْحَةُ ہے — الشُّي
بِالنَّصْرِ: نگاہ ڈالنا۔

لَمَحَ (ف) لَمَحَا وَ لَمَحَاتَا وَ تَلْمَحَا
التَّجْمُ اَوْ التَّبْرُقُ سِتَارَهُ يَابِجِي كَأَجْلَسَا: صفت
لَا مِجٌ وَ لَمُوجٌ وَ لَمَاحٌ۔
لَا مَخْفَهُ: دزدیدہ نگاہی کرنا۔

لَمَحَ تَلْمِيحًا إِلَى الشُّي: اشارہ کرنا —
الْمَلْمَجُ إِلَى فُلَانٍ: اپنی ہوتی نظر ڈالنا —
الشُّي: چمکدار بنانا۔ دزدیدہ نگاہ سے دیکھنا —
الرَّجُلُ: دکھانا۔

الْمَلْمَةُ: نظر خفیف سے دیکھنا۔

الْمَلْمَةُ بِنُصْرَةٍ: نگاہ جانا رہنا۔

الْمَلْمُجُ: ہم۔ کما جاتا ہے "لَا رَيْبَكَ لَمْعَا
بِأَصْوَرًا" میں تم کو صاف و روشن معلوم دکھاؤں
گا۔ اکثر اس کا استعمال وعید کے موقع پر ہوتا ہے۔

الْمَلْمَةُ: جلدی کی نگاہ۔ اسم ہے لمح کا۔
مَلْمَاحٌ کا واحد۔ کما جاتا ہے "زَأَيْتُهُ لَمْعَةً
التَّبْرُقُ" میں نے اس کو دیکھا تھی دیر پیشی دیر میں
ایک مرتبہ بجلی چمکتی ہے۔

الْمَلْمِجُ: نا۔ کما جاتا ہے "هُوَ لَا مِجٌ عَقْفِيهِ"
یعنی وہ خود پسند ہے۔ اَلْمَلْمِجُ لَمَاحٌ: بہت زیادہ
سفید۔

الْمَلْمِجُ: مشابہ۔ چہرے کے خط و خال۔ لمحہ
کی جمع۔ کما جاتا ہے "فِي فُلَانٍ لَمْعَةٌ مِنْ أَيْبِهِ
و مَلْمِجٌ مِنْ أَيْبِهِ" فلاں میں اس کے باپ کی
مشابہت ہے۔

لَمْعَةُ (ف) لَمَحَا: لہانچہ مارنا۔

لَا مَخَهُ مَلْمَاحَةٌ وَ لَمَاحًا: ایک دو سرے کو
لہانچہ مارنا۔

تَلْمَحُ بِكَلَامٍ فَيَسِحُ: بری گفتگو کرنا۔

لَمَعْدَةُ (ن) لَمَعْدًا: فروتنی کرنا۔ انکاری کرنا۔

أَلَا لَمَعْدُوا لِلْمَعْدَانِ عَاجِزٌ زَيْلٌ۔

لمانا کہ آواز نکلے۔
الْمَظْفَرُ: منجے کے ہونٹ پر سفیدی والا ہوتا۔

الْمَظَا: تھوڑی سی چیز جو چھپی جائے۔ کہا جاتا ہے "مآلہ لمظا" اس کے پاس ایسی چیز بھی نہیں جس کو چھپے۔ "وما ذقت لمظا" میں نے کچھ نہیں چکھا "وشربہ لمظا" اور لمظا یعنی اس نے زبان کے کنارے سے چکھا۔

الْمَظَاة: فصاحت۔ زبان کی روانی۔
الْمَظَاة: منہ میں بقیہ کھانا۔ تھوڑی سی چیز کا بقیہ۔ کہا جاتا ہے "ما الدنيا الا لمظاة ايام" دنیا صرف دنوں کا بقیہ ہے۔

الْمَظَ: گھوڑے کے بیچے کے ہونٹ کی سفیدی۔

الْمَظَة: گھوڑے کے بیچے کے ہونٹ کی سفیدی یا ہونٹوں کی سفیدی۔ دل کا سیاہ نقطہ تھوڑا سا گھی وغیرہ جس کو انگلی میں لے سکیں۔

الْمَظَ مِنَ الْخَيْلِ: بیچے کے ہونٹ میں سفیدی والا گھوڑا۔

الْبِلْمَاظُ: جو کسی کی دوستی پر قائم نہ رہے۔
مَوْثٌ يَلْمَاظُهُ: بیلوہ کیواس کرنے والی عورت۔

مَلَايِظُ: الْإِنْسَانُ: منہ اور ہونٹ کا گردا گرد۔

المُتَمَلِّظُ: تھیم کرنے کی جگہ۔

لَمَعَ (ن) لَمَعًا وَ لَمَعَانًا وَ لَمُوعًا وَ لَمِيغًا وَ يَلْمَعًا وَ لَمِيغًا وَ غَيْرَهُ: بجلی وغیرہ کا چمکنا۔ روشن ہوتا۔

ضَرَعَ الثَّقَاةَ: تھن کا دردہ اترنے کے وقت رنگین ہونا — فَلَانٌ بِالشَّيْءِ: لے جانا — بَدِيدُهُ أَوْ بَعُوهُ أَوْ يَسْتَفِيهُ: ہاتھ یا پیر یا تلواریں سے اشارہ کرنا — الظَّالِمُ يَجْتَاحِيهِ: پرندہ کا بازو پھڑپھڑانا — فَلَانٌ أَلْسَابُ: دروازے سے لگانا۔

الْمَعَتِ الشَّافَةِ يَدَيْهَا: بکری کا دم اٹھانا جس سے معلوم ہو کہ گا بھن ہو گئی۔ صفت مُلْمِعَةٌ وَ مُلْمِجٌ — الْأَنْفَى: بیٹھ میں پتہ کا حرکت کرنا — فَلَانٌ بِالشَّيْءِ وَعَلَيْهِ: ایک لینا۔ چرانا۔ لے جانا۔ الْمَعَتِ الْبِلَادُ: خشک گھاس والا ہونا یا

المَلْمُوسَات: قرۃ لاسہ کے حرکات۔ اداسل محوسات۔

الْمَلْمُوسَةُ: راستہ۔

صَحِيْفَةُ الْمُلْتَمَسِ: بدبختی کیلئے مثل ہے۔ اس لئے کہ خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب مٹس آئے تو اس کو قتل کر دو۔

لَمَضَ (ن) لَمَضًا الْعَسَلُ وَ شِبْهَهُ: شد کو انگلی کے کنارے سے لینا اور چائنا — فَلَانٌ يَجْلِي لَيْنًا: نقل اتارنا۔ عیب لگانا۔ منہ چرانا۔ الصَّبِيُّ: پیشاب کرنا۔

الْمَضَ الشَّجَرُ: انگلی سے پکڑنے کے قابل ہوتا۔ الْمَضَ الْكُرْمُ: انگور کی تیل میں نرم انگور ہوتا۔

الْمَضُ: دم۔ لوگوں کی نغیت کرنا۔

الْلَامِصُ: انگور کی تیل کا ماخِظ۔

الْمُؤَصُّ: جھوٹا۔ فریبی۔ نغیت کرنے والا چغل خور۔

لَمَظَهُ (ن) لَمَظًا بِالرُّومِجِ: نیزہ مارنا۔ لَمَظَ فَلَانٌ: گھبرانا۔ مضرب ہونا۔

إِنَّمَطَ: بِحَقِيْقَةٍ: جن کا رہنا۔

لَمَظَ (ن) لَمَظًا: کھانے پینے کے بعد زبان سے ہونٹ چائنا۔ کھانے کے بعد زبان سے دائیوں کے درمیان کا نکالنا — فَلَانًا مِنْ حَقِيْقَةٍ: جن میں سے کچھ رہنا — الْمَاءُ: زبَانِ كَالنَّارِ: سے چکھنا۔

لَمَظَهُ مِنْ حَقِيْقَةٍ: جن میں سے کچھ رہنا۔ کہا جاتا ہے "لَمَظَ فَلَانًا لَمَظًا" تھوڑا سا چکھنا۔

الْمَظَةُ: ہونٹوں پر پانی ڈالنا۔ الْمَظَةُ عَلَى فَلَانٍ: غُصَّةٌ دَلَانَا۔ الْمَظَةُ فَلَانًا: آہستہ نیزہ مارنا — التَّبَعِيُّ يَذِيْبُهُ: اونٹ کا ناگوں کے درمیان دم کو دینا — الرَّجُلُ الْقَوِيْسُ: کمان پر تانت باہر حنا۔

تَلَمَّظَ الرَّجُلُ: کھانے کے بعد زبان نکال کر ہونٹوں کو چائنا۔ کھانے کو منہ میں پھرانا۔ اور کہا جاتا ہے "تَلَمَّظَ بِذِكْرِهِ" یعنی عیب لگایا۔ تَلَمَّظَتِ الْحَيَّةُ: سانپ کا زبان نکالنا۔

إِنَّمَطَ الشَّيْءُ: جلدی سے منہ میں ڈالنا — الظَّعَامُ: کھانا — بِحَقِيْقَةٍ: حق مار لینا — بِالشَّيْءِ: ہلٹنا — بِشَفِيْقَتِهِ: ہونٹوں کو اس طرح

لَمَذَ (ن) لَمَذًا: منہ کے اطراف سے کھانا (ن) میں ایک لغت ہے)

لَمَذَا: کلمہ مرکب ہے لام تغلیل اور ما استعظام اور ذال اسم اشارہ سے۔

لَمَزَةٌ (ن) ض) لَمَزًا: عیب لگانا۔ آنکھ سے اشارہ کرنا۔ ہٹانا۔ مارنا۔ لَمَزَةُ الشَّيْبِ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔

لَا مَزَّةَ: اشارہ کنایہ سے گفتگو کرنا۔

تَلَمَّزَةٌ: ذموتنا۔ تَلَمَّزَ فِي الشَّيْرِ: دوزخا۔

الْمَمَّازِ وَ الْمَمَزَةَ: لوگوں کے عیوب نکلنے والا۔ سامنے عیب بیان کرنے والا۔ الْمَمَّازِ: چغل خور۔

الْمَمَّازِ: سامنے نغیت کرنے والے۔

لَمَسَتْ (ن) ض) لَمَسًا جھوٹا۔ لَمَسَ الشَّيْءُ: طلب کرنا — الشَّيْءُ: جھوٹے کے قابل ہونا

— الْمَمَزَةُ: جماع کرنا — زَيْدًا امْرَأَةً: نکاح کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَمْ شَعَاغَ يَكَاذُ يَلْمَسُ الْبَصَرَ" اس کیلئے شعاع ہے جو نگاہ کو چکا چوند کر دے۔

لَامَسَهُ: ایک دوسرے کو چھونا۔ جماع کرنا۔

الْمَسَ فَلَانًا: ذموتنے میں مدد کرنا۔

زَيْدًا امْرَأَةً: نکاح کرنا۔

تَلَمَّسَ الشَّيْءُ: بار بار طلب کرنا۔

إِنَّمَسَ الشَّيْءُ مِنْ فَلَانٍ: ہانکنا۔ طلب کرنا۔

الْمَمَّاسَةُ وَ الْمَمَّاسَةُ: قریبی حاجت۔

الْمَسُ: دم جو اس جسم ظاہرہ میں ایک حاسہ جس سے حرارت و برودت، رطوبت بیوست معلوم ہوتی ہے۔

الْمَمِيْسُ: نازک بدن عورت۔

الْمَمُوْسُ: منہ یوں بیٹھا جس کے حسب میں عیب ہو۔ کہا جاتا ہے كَوَاهِ لَمَّاسٍ أَوْ كَوَاهِ الْمُتَمَلِّصَةِ یعنی مرض کی جگہ میں داغ لگانا۔

الْمَلَامَسَةُ: دم۔ فَمِنْ التَّبِيْعِ: پکڑنے چھو کر بیچ کو واجب سمجھنا۔

الْمَلْمَسُ: جھوٹا۔ چھونے کی جگہ۔

الْمَلْمُوسُ: مٹخ۔ کہا جاتا ہے "إِكَاظُ مَلْمُوسٍ الْاِحْتَاءُ" پالان جس کی کچی وغیرہ ہموار کر دی گئی ہو۔

سنت گھاس والا ہوتا۔ اَلْمَعِجِ إِلَى فَلَانٍ بِقُوْبِهِ : کپڑے سے اشارہ کرنا — الْقُرْشُ وَنَحْوُهَا : حمل کی وجہ سے تھنوں کا چمک اٹھنا اور تھنوں کے سرے کا کالا ہونا — الطَّائِرُ بِحَنَاحَيْهِ : پرندہ کا بازو کو پھیر پھرانا۔

لَمَعَ الشَّمْسُ : مختلف رنگوں کا بننا۔ تَلَمَّعَ الشَّمْسُ وَالشَّمْعَةُ أَجْك لَمِئًا — التَّبْرِقُ وَوَعْيُوهُ : بجلی وغیرہ کا روشن ہونا۔ اَلْتَمَعِ الْقَوْمُ : لے جانا۔

اَلتَّمَعُ وَالْتَمَعُ لَوْنُهُ : رنگ جاتا رہنا اور سفیر ہونا۔

الألمع. فان لمع. کہا جاتا ہے "ما بالذدار لأمع" یعنی گھیر میں کوئی نہیں۔

الأمعة. لامع کا مؤنث۔ بچہ کی چند یا جب تک نرم رہے۔ جن لوامع۔

اللمعة. گھاس کا خشک شدہ حصہ۔ لوگوں کی جماعت۔ تموزا سا گزراہ زندگی. کہا جاتا ہے "معة لمعة من العيش" اس کے ساتھ تموزا سا گزراہ زندگی ہے جو اس کے لیے کفایت کر سکے — من الجسمد. جسم کے رنگ کی چمک اور بقول بعض لمعة خاص کر بدن کا سیاہ حصہ۔ اور بقول بعض ہر رنگ جو اصلی رنگ کے مخالف ہو۔ جسم کا وہ حصہ جو نہانے یا وضو کرنے میں خشک رہ جائے جن لمع و لماع۔

اللماع. لامع کا اسم مبالغہ۔ اللماعة. عقاب۔ میدان جس میں سراب چمکے۔ بچے کی چند یا جب تک نرم رہے۔ اللموع. چمکنے والا۔ تیز چمکنے والا عقاب۔ الألمع والألمعي. تیز ذہن۔ تیز فہم۔ الألمعية. ذکاوت۔

کہا جاتا ہے ذَهَبَتْ نَفْسُهُ لِمَاعًا اس کی جان آہستہ آہستہ نکلی۔ التلميع في الخيل وغيرها: جسم کے رنگ کے مخالف داغ۔ جن تلاميع. کہا جاتا ہے "فِينِهِ تَلْمِيعٌ وَ تَلَامِيعٌ" جب کہ جسم میں مختلف رنگ ہوں۔

وَلَمَعَا الطَّائِرُ: پرندہ کے دونوں بازو۔ الملمع من الخيل وغيره: جسم کے رنگ

کے مخالف داغ والا۔ اَرَضٌ مُلْمَعَةٌ وَمُلْتَمِعَةٌ وَمُلْتَمَعَةٌ: زمین جس میں سراب چمکے۔

خَدُّ مُلْمَعٍ: چمک دار رخسارہ۔

التملّع. بے بارش کی بجلی۔ سراب۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَكْذَبٌ مِنْ تَلْمِيعٍ" فلان سراب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ اور اس سے جھوٹے کو تشبیہ دی جاتی ہے کہا جاتا ہے "إِنَّمَا هُوَ تَلْمِيعٌ" یعنی وہ جھوٹا ہے۔ جن تلاميع. وَ التلميع من التبلّغ: چمکنے والے ہتھیار جیسے خود زرہ وغیرہ۔ جن تلاميع۔

التلميع. ذہن۔ تیز فہم۔ جھوٹ ج ملانے والا۔ لَمَعَةُ (ان) لَمْعًا وَ لَمُوقًا. لکھنا۔ مٹانا۔ لَمَقٌ عَيْنُهُ: آنکھ ملنا۔ کالی کرنا۔ لَمَقَ إِلَيْهِ: دیکھنا — إِلَيْهِ بِنَصْرِهِ: ویر تک دیکھنا۔

تَلَمَّقَ: چمکنا۔

اللمقاق. چمکنے کی تمویزی سی چیز۔ کہا جاتا ہے "مَا ذُقْتُ لَمَاقًا" میں نے کچھ نہیں چکھا "وَمَا يَأْخُذُ فِي لَمَاقٍ" زمین میں چراگاہ نہیں۔ لَمَقُ الظَّرْفِي: راستہ کا درمیان۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ فِي لَمَقِ الظَّرْفِيِّ" یعنی راستہ کے وسط میں چلا۔

اللملق. روئی دار تبا۔ (دخیل) لَمَكَ (ان) لَمَكًا الْعَجِيزُ: نرم گوندھنا۔ تَلَمَّكَ التَّجْوِيزُ: آؤنٹ کا جزوں کو حرکت دینے ہوئے کھانا۔

اللمماك. چمکنے کی چیز۔ صرف نفی ہی میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "مَا تَلَمَّكَ بِلَمَاقٍ" یعنی کچھ نہیں چکھا۔ اللمماك واللمماك واللمنك. سرمہ۔ اللمنك. سرمہ لگایا ہوا۔

اللمنك. قوی جوان۔ مردوں ہی کے لیے خاص ہے۔ اور حرف یا زائد ہے۔ تَلَمَّلَ فِيهِ: کھانے کے بعد زبان کو اوپر ادر پھرانا۔

اللمال واللمال. سرمہ۔ لَمَلَمَ الْحَجَرُ: پتھر کو گول گھڑنا — الشئ: جمع کرنا۔

تَلَمَّلَمَ: گول ہونا۔ جمع ہونا۔

اللملم. بست مع شدہ فوج۔

اللملموم. جماعت۔

وَجَلَّ مَلْمَلَمٌ وَجَمَلٌ مَلْمَلَمٌ: گھٹے بدن کا مرد اور آؤنٹ۔ شعر مَلْمَلَمٌ: تیل لگے ہوئے بال۔

الململمة مَلْمَلَمٌ كالمؤنث. ہاتھی کی سوز۔ لَمَامًا يَلْمُسُو لَمُوقًا الشئ: سب لے لیتا۔

الملمة. جماعت۔ تمہن لے کر دوس تک کے ساتھی۔ ہم عمر۔ ہم شکل۔ بیرونی کے لیے نمونہ۔ جن لمعات۔

لَمِي يَلْمِي لَمِيًا وَ لَمِي يَلْمِي لَمِيًا الْغُلَامُ: لڑکے کا سیاہ ہونوں والا ہونا۔ صفت مذکر اللمی۔ صفت مؤنث لَمِيًا۔

اللمی الماء البص بكدًا: چور کا چمکے سے لے جانا۔ اڑا لے جانا۔

تَلَمَّتْ الْأَرْضُ بِهِ وَ عَلَيَّ: حاوی ہونا۔ مشتمل ہونا۔

اللمی اللمية. لَوْنُهُ: رنگ سفیر ہونا — یہ اپنے لیے خاص کرنا اور غالب ہونا۔

اللمی. جیشیت اللم: ہونٹ کے اندرونی حصہ میں گندم گولی یا سیاہی۔

الاللمی. گندم گول یا سیاہ ہونٹ والا۔ زَمِعَ اللمی مضبوط و گندم گول تیزہ۔ ظِلُّ اللمی: گنجان سایہ۔ شَجَرُ اللمی: گنجان سایہ دار درخت۔ غَلَامٌ اللمی: سرد تموک والا لڑکا۔

مؤنث لَمِيَاء. جن لَمِي. لَمِيَةً لَمِيَاء: کم خون والا اور بقول بعض کم گوشت والا سوزھا۔

لَمِنَ: مضارع کے حروف تابہ میں سے ہے نفی اور استقبال کا فائدہ دتا ہے جیسے "لَمِنَ الْفَعْلُ الْمَنْكُرُ مَا يَنْقِضُ" جب تک زندہ رہوں گا مور مکرہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اور ذمے کے موقع پر بھی آتا ہے جیسے "لَمِنَ قَوْلِ الْأَمَلِجَانِ الْفَقِيرِ" بیش فقیر کے بار ہو۔

لَمِنَ (ان) لَمِنًا الشجر: نازک و مستحسن شعر کرنا۔ لَمِيَتْ (س) لَمِيًا وَ لَمِيًا وَ لَمِيًا وَ لَمِيًا وَ لَمِيًا وَ لَمِيًا وَ لَمِيًا: شعلہ بھڑکانا۔

لَمِبَ (س) لَمِبًا وَ لَمِبًا وَ لَمِبًا وَ لَمِبًا: بیاسا ہونا۔ صفت لَمِبَان۔

لَمِبَ النَّازُ فَتَلَمَّبَتْ وَ لَمِبَهَا فَتَلَمَّبَتْ

آگ بھڑکانا۔ یہاں تک کہ شعلہ ہو کر بھڑک اٹھنا۔ **الْقَهْبُ عَلَيَّ**۔ غضبناک ہونا۔ غصہ سے جانا اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَنْقَلِبُ وَيَنْقَلِبُ" جوڑے سے بھڑک رہا ہے۔

الْقَهْبُ النَّازِ۔ آگ بھڑکانا — **الْقَرْشُ**۔ گھوڑے کا دوڑنے میں غبار اڑانا — **النَّبْزُ**۔ بجلی کا پاپے کو تڑنا۔ **الْقَهْبُ فِي الْكَلَامِ**۔ جلدی سے کہہ گزرتا۔ کہا جاتا ہے "الْقَهْبُ لِلْأَمْرِ" اس نے اس کو کام کے لیے آسایا۔

الْقَهَابُ۔ مہ-بیاس۔
الْقَهَابَةُ۔ ایک قسم کی کملی جس میں پتھر رکھ کر ہودج یا بوجھ کے ایک جانب کو جکاتے ہیں۔

الْقَهْبُ۔ دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی یا پہاڑ کی دراڑ۔ **جِجَ الْقَهَابِ وَالْقَهَابَةُ**۔ **الْقَهْبُ**۔ مہ۔ بے دھوئیں کا شعلہ۔ بلند غبار۔ **الْقَهْبَانُ**۔ مہ گرمی کی شدت۔ گرم دن۔

الْقَهْبَةُ۔ بیاس۔ خالص سفیدی۔
الْقَهْبُ۔ مہ۔ آگ کی گرمی۔ **الضَّهْبُ**۔ حق کے نہ ملنے کی وجہ سے بھڑکنے والا۔
الْقَهْبُ۔ گھوڑے کی دوڑ کی تیزی جس سے غبار اڑے یا اس کے کمرے آگ نکلے۔

الْقَهْبُ۔ نہایت خوبصورت۔
الْقَهْبُ۔ تیز دوڑنے والا غبار اڑانے والا گھوڑا۔

الْقَهْبُ مِنَ الْقِيَابِ۔ کم سرفی والا پیرا۔
الْقَهْبُ۔ خداوندی۔ اور اس کی اصل "لاہ" بمعنی آلہ ہے واؤ اور تا کی زیادتی مبالغہ کیلئے ہے جیسے جبروت و ملکوت میں۔ **عَلَّمَ**۔ **الْقَهْبُ**۔ عقائد متعلقہ ذات و صفات باری تعالیٰ کا علم۔ **الْقَهْبُ**۔ عقائد متعلقہ ذات و صفات باری تعالیٰ کا علم۔

لَهَتْ و **لَهَتْ** و **لَهَتْ** و **لَهَتْ** و **لَهَتْ** و **لَهَتْ** و **لَهَتْ**۔ کتے وغیرہ کا بچنے میں ڈبان نکالنا۔

لَهَتْ (س) **لَهَتْ** و **لَهَتْ** و **لَهَتْ** و **لَهَتْ**۔ پیاسا ہونا۔ صفت مذکر **لَهْتَانُ**۔ صفت مؤنث **لَهْتِي**۔

لَهْتِ الْكَلْبُ۔ کتے کا بچنے میں ڈبان نکالنا۔

الْقَهَاتُ۔ مہ بیاس کی جلن۔ موت کی سختی۔ تم کہتے ہو "هُوَ يَفَاسِي لَهَاتِ الْمَوْتِ" وہ موت کی سختی کو برداشت کر رہا ہے۔

الْقَهْفَةُ۔ صحن۔ بیاس۔

لَهَجٌ (س) **لَهَجًا بِالشَّيْءِ**۔ شیفت ہونا۔ صفت **لَهَجٌ** و **لَهَجٌ**۔ **الفَصِيلُ**۔ چوہنا۔ **الفَصِيلُ**۔ مہ۔ ماں کے دودھ پینے کا عادی ہونا۔ صفت **لَهَجٌ**۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔

الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔
الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔

الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔
الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔

الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔
الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔

الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔
الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔

الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔
الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔

الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔
الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔

الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔
الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔

الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔
الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔

الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔
الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔

الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔
الْقَهْجُ۔ **القَوْمُ**۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھانا۔

بارنایا چھوٹا۔

لَهْدٌ **فُلَانًا**۔ بمعنی لَهْدَةٌ اور تشدید تکثیر کیلئے ہے۔

الْهَدَّةُ۔ ظلم کرنا۔ **الْهَدْبَةُ**۔ ذلیل کرنا۔ حقیر سمجھنا۔ **الْهَدْيُ إِلَى الْأَرْضِ**۔ بوجھ کی وجہ سے زمین کی طرف جھکانا۔ **بِفُلَانٍ**۔ دو لڑنے والوں میں سے ایک کو پکڑ لینا اور دوسرے کو چھوڑ دینا۔

الْهَدَادُ۔ بچکی۔
الْهَدْمُ۔ مہ۔ ایک مرض ہے جو انسان کی ٹانگ یا رانوں میں ہوتا ہے۔ صدمہ وغیرہ کی وجہ سے اونٹ کے سینہ میں شگافتگی۔ سست و ناکارہ مرد۔

الْهَدْمُ۔ عاجز۔ تھکا ہوا۔
الْهَدْمَةُ۔ ایک نرم قسم کا حلوا۔
الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔

الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔
الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔

الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔
الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔

الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔
الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔

الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔
الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔

الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔
الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔

الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔
الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔

الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔
الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔

الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔
الْمُهْدَمُ۔ مہ۔ "زَجَلٌ مُلْهَدٌ" کمزور ذلیل۔

اللہز - سخت۔

اللہزۃ - کان کے نیچے جڑے میں ابھری ہوئی بڑی۔

الملہزۃ - کان کے نیچے کی بڑی اور گردن پر مٹکا مارنے والا۔

الملہزور - منع گھسے بدن والا - جڑے کی بڑی پرداخ لگا ہوا۔

لہزۃ - جڑے کی بڑی کو کاٹا - لہزۃ الشیب تحذہ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔

اللہزۃ - کان کے نیچے جڑے کی ابھری ہوئی بڑی ج لہازم۔

لہس (ف) لہسا الشی: چائنا (لحس میں لغت ہے) - الصبیح فدی اقبہ: بے چوسے ہوئے چائنا - علی الطعام: حرص کی وجہ سے جوم کرنا۔

لاہس ملاءۃ علی الطعام: کمانے پر جوم کرنا - القوم الی الشی: سبقت کرنا اور جوم کرنا۔

کما جاتا ہے "فلان یناہس ینین فلان" جبکہ کمانے کے وقت پہنچ جائے۔

اللاہس - جلد باز - چابک دست - ج لہواہس۔

اللہاس واللہاسۃ - تھوڑی خوراک۔ اللہسۃ - چائے کے قابل چیز - کما جاتا ہے "مائلک عندئ لہسۃ" تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔

لہسۃ ما علی المائدۃ: دسترخوان سے سب کچھ کھالیتا۔

اللہاسۃ - وادی کی ٹھک تالیاں واحد لہسۃ۔ لہسۃ (ف) لہسۃ - تھمر مارنا - لہسۃ سہم: تھمر مارنا - لہسۃ القوب: کپڑا سینا - یہ الارض: زمین پر بچھاڑنا - لہسۃ ائیبہ: جنا۔

اللاہط - نا - اپنے گھر کے دروازے پر چکر کاڑ کرنے والا اور صاف ستھرا رکھنے والا۔

لہسۃ من الخبیر: افواہ جس کی نہ تم تصدیق کرو نہ تکذیب۔

لہج (س) لہقا ولہاعۃ الزجحل: ہر ایک سے بے تکلف ہونا۔ صفت لہج و لہج و لہج - فی الکلام: خوب بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا۔

اللہاعۃ - غفلت۔

اللہع - کارگزاری میں تیز۔

اللہنعۃ - غفلت - سستی - کابلی خرید و فروخت میں سستی کرنا یہاں تک کہ نقصان ہو جائے۔

لہف لہفا - ظلم کیا جانا۔

لہف (س) لہفا - علی منافات: غمگین ہونا۔ افسوس کرنا۔ صفت لہف و لہیف - لہف فلان: نفسہ او ائہ: بانفساۃ و امیابہ و الہفاہ کنار اور کما جاتا ہے "لہف ائیبہ: یعنی ابوبہ: یہاں پر لفظ ام کو اب پر غلبہ دیا گیا ہے اس لیے کہ ماں کی مانتا مشہور ہے۔ اور کما جاتا ہے "لہفت الیک تلہفنا" یعنی میں نے تجھ سے فریاد سی کی۔

الہف - حریف ہونا۔ نہایت خواہش مند ہونا۔ تلہف - غمگین ہونا۔ افسوس کرنا۔

الہفت الثار: آگ کا بھڑکانا۔ ائہف فلان: کسی مصیبت کے نازل ہونے پر غم سے بھڑک اٹھا۔

اللاہف - فا - مظلوم - مضر - فریادی۔ افسوس کرنے والا۔ مؤنث لاہف و لاہفۃ۔ اور کما جاتا ہے "ہو لاهف القلب" وہ شکستہ دل ہے۔

اللاہفۃ - لاهف کا مؤنث۔ ج لاہفات و لہواف۔

اللہف - مع - یالہف فلان: کلمہ ہے جس سے منافات پر افسوس کیا جاتا ہے یعنی فلاں پر کس قدر افسوس ہے اور کما جاتا ہے "یا لہفی علیک و یا لہف و یا لہفا و یا لہف ارضی و سماوی علیک و یا لہفاہ" یعنی تیرے اوپر افسوس ہے۔

اللہقان - افسوس کرنے والا۔ غمزدہ۔ مؤنث لہفی ج لہافی و لہف۔

اللہقۃ - لہف کا اسم مرۃ - اور فوت شدہ کے افسوس کیلئے کما جاتا ہے "یا لہقۃ و یا لہقۃ و یا لہقۃ"۔

اللہوف - ہونا۔ لمبا۔ افسوس کرنے والا۔ مؤنث اللہوفۃ۔

اللہیف - مضر - افسوس کرنے والا۔ زجحل لہیف القلب: سوختہ دل۔ ج لہاف۔

الملہوف - غمگین جس کا مال ضائع ہو گیا ہو یا کوئی قریب فوت ہو گیا ہو۔ فریاد کرنے والا مظلوم

زجحل ملہوف القلب: سوختہ دل مرد۔

لہق (ف) و لہق (س) لہقا و لہقا الشی: بہت سفید ہونا۔

تلہق الشی: بہت سفید ہونا - الزجحل: زیادہ گفتگو کرنا۔

اللہاق - سفید یا سفید تیل - کما جاتا ہے: "ابیش لہاق او لہاق" بہت سفید "وبقرۃ لہاق" بہت سفید گائے۔

اللہق واللہق - سفید تیل - سفید - مؤنث لہقۃ و لہقۃ - ج لہقات و لہاق - کما جاتا ہے "ابیش لہق و لہق" بہت سفید۔

ملہق اللون: سفید رنگ والا۔

لہلہ لہلہ: التشاخ القوب: باریک بنا (لہلہ کا مطلق ہے)۔

تلہلہ القوب: باریک بنا ہوا ہوتا - الکلاۃ: تھوڑی سی گھاس کے درپے ہونا۔

اللہلہ من القیاب او الکلام او الشیور: رومی کپڑا گفتگو یا شعر۔

اللہلہ - بد صورت - بلذ لہلہ: کشادہ مقام جہاں سراب بہت ہوں - ج لہالہ (- واللہلہ) کشادہ زمین۔

اللہلہ: کسی چیز سے رجوع کرنا۔ باریک بناؤ۔

لہم (س) لہما و لہما الشی: ایک ہی مرتبہ میں لگنا - العاء: ٹھونٹ لینا۔

اللہمۃ الشی: گھرانہ۔ اللہم اللہ فلانا خیرا: وحی کرنا۔ سکھانا۔ توفیق دینا۔ دل میں ڈالنا۔

تلہم و التہمۃ الشی: ایک ہی دفعہ میں لگنا۔ ہرپ کرنا۔ (التہمۃ ہی بولا جاتا ہے)۔

اللہم لؤنہ: رنگ خستہ ہونا۔

استلہم اللہ خیرا: اللہ سے خیر کے الہام کی دعا کرنا۔ کما جاتا ہے "استلہم اللہ الرشاد" اللہ سے رشاد و ہدایت کے الہام کی دعا کرنا ہوں۔

اللہام - بڑا نکر۔

اللہم - عمر رسیدہ - ج لہوم۔

زجحل لہم و لہم: کھاؤ۔ بیٹو۔ اللہمۃ من الشوق: ایک مرتبہ پھاٹنے کی

مقدار ستوں۔

اللَّهُمَّ: بہت بخشش والا۔ بڑا دیالو۔ بڑا سمندر۔ کھاؤ۔ سبت کرنے والا گھوڑا یا آدمی۔ زَجَلٌ لَّهُمْ: مرد روشن رائے بخشش کرنے والا۔ کفایت کرنے والا۔ ج لَّهُمْؤن (عمورتوں کے وصف میں واقع نہیں ہوتا) زَجَلٌ لَّهُؤْم۔ کھاؤ مرو۔

اللَّهُمُّم وَأُمُّ اللُّهُمُّم۔ موت۔ بخار۔ معیبت۔ اللُّهُمُّم: کشادہ دیک۔

الإلھام۔ مہ۔ اللہ کا انسان کے دل میں ایسا داعیہ پیدا کرنا جو کسی فعل کے کرنے یا چھوڑنے پر آمادہ کرے۔

الملہم والملمہم من الرجال: کھاؤ۔ بیٹھو۔ لُھَمَسَ مَا عَلَى الْمَائِدَةِ: سفرخان سے سب کچھ کھالینا۔

اللُّهُمُّم۔ بڑا لکڑ۔ جی آدمی۔ عمدہ گھوڑا۔ بے شمار۔ بہت برسنے والا بادل۔ بہت دودھ والی اونٹنی۔ ج لُھَادِیْمٌ وَلُھَادِیْمٌ النَّاسِ: جی لوگ۔ اللُّهُمِّیْم۔ سبت کرنے والا گھوڑا یا آدمی۔ لُھَنَ الْقَوْمُ وَ لُیْقَوْمُ: ناشتہ کھانا۔ سفر سے واپسی پر تحفہ دینا۔

أَلُھَنَ۔ مسافر کو سفر سے واپسی پر تحفہ دینا۔ تَلَّھَنَ الرَّجُلُ: ناشتہ کھانا۔ أَلُھِنَہُ۔ تحفہ جو مسافر سفر سے واپسی پر دے۔ ناشتہ۔ تحفہ جو مسافر کو سفر سے واپسی پر دیا جائے ج لُھَن۔

لُھَا لُھُؤ لُھُؤا۔ الرَّجُلُ: کھینا۔ بہ: فریفت ہونا۔ لُھُؤا وَ لُھُؤَا: المَزَاةُ إِلَى حَدِیثِ الرَّجُلِ: مالوس ہونا۔ پسند کرنا۔ لُھُؤَا وَ لُھُؤَاتَا: عَنِ الشَّیْءِ: غافل ہونا۔ ذکر چھوڑنا۔ بھولنا۔

لُھِی تَلُھِی لُھَا بَکَذَا: محبت کرنا۔ عتہ: تسل پانا۔ غافل ہونا۔ ذکر چھوڑنا۔ روگردانی کرنا۔ کما جاتا ہے "إِنَّہُ لَمَّا کَمَا تَلُھِی لَکَ" تم مجھ اس کے ساتھ ویسا ہی کرو جیسا وہ تمہارے ساتھ کرتا ہے۔

لُھَا تَلُھِیۃٌ عَنِ کَذَا: غافل کر دینا۔ ہ بَکَذَا: مشغول کرنا۔

لَاھَا مَلَاھَاۃٌ قَرِیْبٌ ہُوَا۔ جھگڑا کرنا۔ لَھِی الشَّیْءُ: نزدیک ہونا۔ الْغَلَامُ: دودھ چھوٹنے کے قریب ہونا۔

أَلْھَاہُ الْھَاۃُ: اللَّغَبُ عَنِ کَذَا: غافل کرنا۔ فَلَاۤنَ الشَّیْءِ: عاجزی سے چھوڑ دینا۔ الرَّحِی وَفِی الرَّحِی وَ لِلرَّحِی: جگہ میں کول ڈالنا۔ اَلْھِی الرَّجُلُ: بہتر اور کثیر عطیہ دینا۔

تَلُھِی تَلُھِیَا بَکَذَا: کسی چیز پر توجہ یا اعراض سے دل بہلانا۔ بِالشَّیْءِ: مشغول ہونا۔

تَلَاھِی تَلَاھِیَا بِالْمَلَاھِی: کھیل کود میں مشغول ہونا۔ الْقَوْمُ: باہم کھینا۔

الْفُھِی الرَّجُلُ بِالشَّیْءِ: کھینا۔ عَتَّہُ بَغِیْرِهِ: مشغول ہونا۔

اسْتَلْھِی اسْتَلْھِیَاۃً: صَاحِبِہُ: ساتھی کا انتظار کرنا۔ فُھِرَاۃً: الشَّیْءِ: زیادہ لینا۔ لُکنا۔

الْمُھَاۃُ۔ مقدار۔ کما جاتا ہے "ھُمُ لُھَاۃُ عِیَاۃ" وہ لوگ سو (۱۰۰) کی مقدار ہیں۔

اللُھُؤ۔ کھیل کود۔ وہ چیز جس سے انسان لذت حاصل کرے۔ عورت جس سے کھیل کود کیا جائے۔ ذھول۔ فرزند۔

الْمُھَاۃُ: حلق کا کواچ لُھُؤَاتِ وَ لُھِیَاتِ وَ لُھِی وَ لُھِی وَ لُھَا وَ لُھَاۃُ لُھَاۃُ:

الْمُھَاۃُ: لُھَا کَا اس مہ۔ عورت جس سے کھیل کو کیا جائے۔

الْمُھَاۃُ وَ الْمُھَاۃُ: پینے ہوئے جگہ میں ایک مرتبہ جتنی مقدار میں غلہ ڈالیں۔ عطیہ۔ بہتر و کثیر عطیہ۔ لپ بھرنا۔ ج لُھِی۔

الْمُھِنَۃُ: عطیہ یا بہتر و کثیر عطیہ۔ کما جاتا ہے "فَلَاۤنَ لُھُؤَ عَنِ الْخَیْرِ" فلاں بھلائی سے بہت غافل ہے۔

الْمُھُؤِ۔ لُھَاۃُ کی طرف منسوب۔ وَالْحَرْفَانِ الْمُھُؤَانِ: ق۔ وک۔

الْأَلُھُؤَۃُ وَ الْأَلُھِیۃُ وَ التَّلْھِیۃُ: جس سے کھیل کو کیا جائے۔

الْمُھَلِی۔ کھیل کود۔ کھیل کود کا زمانہ۔ کھیل کود کی جگہ۔ کما جاتا ہے "ھَذَا مُھَلِی الْقَوْمِ" یعنی یہ ان کی اقامت کی جگہ ہے "وْھَذَا مُھَلِی الْأَلْھِی" یہاں یہ جگہ ان کی جگہ ہے۔

الْمِھَلِی۔ کھیل کود کا آلہ۔ ج مَلَاہِ۔ آلاَتِ الْمَلَاہِی۔ آلاَتِ موسیقی۔

لُھُؤَج۔ مادلہن میں گزرتی جگہ۔ لُھُؤُوق لُھُؤُوقٌ وَ تَلُھُؤُوقُ الرَّجُلُ: جو اپنے اندر نہ ہو اسے ظاہر کرنا۔ فِی الْعَمَلِ وَ الْکَلَامِ: ترک مبالغہ کرنا۔

زَجَلٌ لُھُؤُوقٌ: ڈینگ مارنے والا۔ جو اپنے اندر نہ ہو اسے ظاہر کرنے والا۔

لُؤِیہ حرف چھ طریقے سے مستعمل ہے۔ (۱) زمانہ ماضی میں شرط کیلئے جیسے "لُؤِ جَاءَ نِی لَآخِرَ فِئْتِہُ" اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کا اکرام کرتا۔ یہ تین باتوں کا فائدہ دیتا ہے۔ ایک شرط۔ دوسرے شرط کو زمانہ ماضی کے ساتھ متقید کرنا۔ تیسرے امتناع اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حرف امتناع لامتناع ہے یعنی شرط کے منتہی ہونے کی وجہ سے جزاء منتہی ہوتی ہے مناطق نے اس کو ادوات اتصال قرار دیا ہے جیسے "لُؤِ کَانَ زَیْنٌ حَاجِرًا کَانَ جَمَاعًا"

(۲) زمانہ مستقبل میں شرط کیلئے مگر یہ جازمہ نہیں جیسے "وَلُؤِ تَلْقَی اَصْدَآءَ نَا بَعْدَ مَوْتِنَا" الخ۔ اور اس قسم میں اور پہلی قسم میں فرق یہ ہے کہ شرط جب مستقبل ہو تو لُؤِ ان کے معنی میں ہوتا ہے اور جب ماضی ہو تو حرف امتناع ہوتا ہے اور جب اس کے بعد فعل مضارع واقع ہو تو ماضی کے معنی میں ہو جاتا ہے جیسے لُؤِ تَقْرَؤْ اَقْرَؤْ یعنی لُؤِ قُمْتُ قُمْتُ۔

(۳) یہ کہ حرف مصدری ہو بنز لہ ان کے مگر یہ نصب نہیں دیتا۔ اور اَلْکُرُوْدُ یُوْدُ کے بعد واقع ہوتا ہے جیسے "وَدُوْا لُؤِ تَابِیْہِمُ" وہ تمنا کرتے ہیں کہ تم ان کے پاس آؤ "یُوْدُ اَخَذَھُمْ لُؤِ یُعَظِّرُ" ان میں ایک عمرویے جانے کی تمنا کرتا ہے۔

(۴) یہ کہ تمنا کیلئے ہو۔ اس کا جواب منصوب اور فا کے ساتھ ہوتا ہے جیسے "لُؤِ تَابِیْہِی فَسَخَدَنِی" تمنا ہے کہ تم میرے پاس آئے اور مجھ سے باتیں کرتے۔

(۵) عرض کیلئے مانند الَا کے اس کا جواب بھی فاء

لوح

لود

۷۲

لوص

فَلَوْحٌ مَلَوَّحٌ. اُكَّعٌ سَعْفِيٌّ شَدِيدٌ تَمْرٌ.

لَا تُحَدُّ تَلَوُّوْحُهُ لَوْحًا. مَلَانًا.

إِن تَخَّخَّ إِلَيْهَا تَخًا. مَلَانًا — الْعَجِينِي: كَمَدَمِي
هَوَيْتُ آتَيْتُ فِيهِ خَيْرًا تَمْنًا.

الْمَلَوَّاحَةُ وَالْمَلِيَّاحَةُ. كَمَحْنُ دُودِهِ سَلَا هَوَا.

لَوْ دَبَلُو ذُلُودًا. سَرَكَشٌ هَوَا. نَافِرَانٌ هَوَا.

الْأَلُودُ. سَرَكَشٌ — نَافِرَانٌ. جَوْ عَدَلٍ كِي طَرَفٍ
مَآكِلٌ نَدَبٌ هُوَ. مَوْتِي كَرْدَانٌ جِ الْوَادِ.

لَا دَبَلُو ذُلُودًا وَ لَوَادًا وَ لَوَادًا وَ لَوَادًا وَ لَوَادًا.

بِالْحَبْتِلِ: بِهَآئِشٍ مَجْمَعًا. بِنَاهُ كِهَرُوتَا — بِالْقَوْمِ:

بِنَاهُ فِي آتَا — الظَّرِيقُ بِالْأَدَارِ: رَاسَتَا كَافَرَسَ

مَتَمَلٌّ هَوَا.

لَا وَ ذَلُودًا وَ مَلَاوَذَةً بِفَلَانٍ: بِنَاهُ فِي آتَا —

عَتَهُ: قَرِيبٌ دِينًا — فَلَانًا: مَتَاخَلَّتْ كَرَا. الْقَوْمُ:

مَدَارَاتُ كَرَا — الْقَوْمُ: أَيْكَ دُوسَرَسَ كِي بِنَاهُ لِينَا

— بِالْقَوْمِ: مَرَدُ كِهَوَمْنَا.

الْأَذَى الْإِذَةُ بِالْحَبْتِلِ وَ بِالْقَوْمِ: بِمَعْنَى لَأَذَى.

الظَّرِيقُ بِالْأَدَارِ: حَاطَطُ كَرَا أَوْرَ مَتَمَلٌّ هَوَا.

الْأَذَى الدَّارُ بِالظَّرِيقِ: كِهَرُ كَارَاسَتَا سَ مَتَمَلٌّ

هَوَا.

الْلُودُ. مَع: بِهَآئِشٍ كَا كَانَرَا. كَمَا جَا تَا سَ اِخْتَصَمَ

بِلُودِ الْحَبْتِلِ وَ بِالْوَادِ اِذِهِ اِسْ لَانِ بِهَآئِشٍ كَانَرَا سَ

بِنَاهُ لِي. وَادِي كَا مَوْتِي. كَمَا جَا تَا سَ "تَلَوُّوْحًا بِلُودِ

الْوَادِي" وَ هُوَ لُوكُ وَادِي كَسَ كُوشِ فِي اِسْرَا سَ. كَمَا

جَا تَا سَ "فَلَانٌ يَطْلُوفُ فِي الْوَادِ الْبِلَادِ" فَلَانٌ

نُكَلٌّ كَسَ اَطْرَافِ فِي مَهْرَا تَا سَ "وَ هُوَ لَوْذَةٌ" وَ

اِسْ سَ قَرِيبٌ هُوَ جِ الْوَادِ.

لَوْ ذَانُ الشَّيْءِ: جَابِ.

الْلُودِيَّةُ: قَرِيبٌ دِينِ.

الْلَادَةُ: سَرَكَشٌ رَيْشِي كِهَرَانٌ لَأَذَى.

التَّلَوَادُ. اِسْمٌ هُوَ بِمَعْنَى مَلَاوَذَةٍ. كَمَا جَا تَا سَ

"لَهُمْ تَلَوَادٌ" يَتَنِي بَعْضُ بَعْضٍ كِي بِنَاهُ لِينَا سَ.

لِوَادِ الشَّيْءِ: قَرِيبٌ قَرِيبٌ. كَمَا جَا تَا سَ "لِيْنِ مِنْ

الدَّرَاهِمِ مِائَةٌ أَوْ لِيوَادُهَا" مِيرَسَ پَاسِ سَوِيَا اِسْ

كَسَ قَرِيبٌ قَرِيبٌ دَرَاهِمِ هُوَ.

الْمَلَادُ: قَلْبٌ. جَا تَا سَ بِنَاهُ.

الْمَلَاوَذُ: اِزَارِيْنٌ وَوَاحِدٌ مِلْوَذُ.

الْمِلْوَذَةُ: جَا تَا سَ بِنَاهُ.

— فَلَانًا بِالْعَصَا وَالسَّنْفِ وَالسَّوْطِ

وَالثَّقَلِ: اِضْمَانًا أَوْرَارًا.

الشَّيْءُ بِالنَّارِ: اُكَّعٌ سَ كَرَمٌ كَرَا.

الْأَخُ الْإِخَةُ الشَّيْءُ: ظَاهِرٌ هَوَا — التَّبْوُفُ:

كَبَلٌ كَا جَمَانًا — التَّجْمُ: سَتَارَةُ كَارُوشِنٌ هَوَا

— بِسَمْعِهِ أَوْ نَوْبِهِ: تَلَوَارٌ يَا كِهَرَسَ سَ اِشَارَةُ

كَرَا — بِحَقِيْقِهِ: حَقْنٌ مَارِيْنَا — فَلَانًا: بِهَلَاكِ

كَرَا — مِثْلُهُ: خُوفٌ كَرَا. پَرِيْمِزُ كَرَا — مِثْنُ

الْقَوْلِ: خَيْرَانًا — عَلَيَّ الشَّيْءِ: اِحْتِمَادُ كَرَا.

تَلَوَّحٌ: ظَاهِرٌ هَوَا وَوَاحٍ هَوَا.

إِن تَخَّخَّ إِلَيْهَا: بِهَآئِشٍ هَوَا.

إِسْتِيْلَاحٌ فِي الْأَمْرِ اِسْتِيْلَاحًا: غَوْرٌ كَرَا.

اِسْتِيْلَاحٌ: بِهَآئِشٍ هَوَا.

الْمَلِيَّاحُ وَالْمَلِيَّاحُ: مَوْجٌ جَنْجَلِيٌّ مِلٌّ سَفِيْدٌ أَوْر

تَاكِيْدُ كَسَ مَوْجِ پَرِيوَلَا جَا تَا سَ "اَيْبِضُ لِيَّاحٍ أَوْ

لِيَّاحٌ" خَالِصٌ سَفِيْدٌ.

الْمَلِيَّاحَةُ لَانِحٌ كَا مَوْتِي. ظَاهِرٌ هُوَ سَ وَادِي جِ

لَوَائِحِ. كَمَا جَا تَا سَ "نَطَلَتْ اِلَيَّ لَوَائِحِهِ

وَ الْوَائِحُ" فِي سَ اِسْ كِي ظَاهِرِي هَشَلٌ وَ

مَوْتِي كُو دِيكَمَا. الْمَلِيَّاحَةُ رَجِيْزٌ جِ فِي

حَسَابِ رُوحِ كِيَا جَا تَا سَ (مَوْلَدُهُ)

الْلُوحُ: حَقْمِيٌّ. مَرِجُوِيٌّ پَرِي كِهَرِي هُوِيَا پَرِي بِلُوْبَا

جِ الْوَاوِحِ. لَوْحٌ الْبَحْتِيْدُ: بِهَاتِهِ أَوْرَ نَآئِكِ كِي پَرِي

كَسَ عِلَاوَةُ پَرِي. يَا هَرُوَةُ پَرِي جُو پَرِي هُو. جِ

الْوَاوِحُ جِ الْوَاوِيْحِ. الْوَاوِحُ الْمِيْلَاحُ: چَكْمَدَارُ

بِهَتِيَارِ.

الْلُوحُ: بِهَآئِشٍ نَضَاءُ اَسْمَانِي.

اِبِلٌ لَوْحِي: بِهَآئِشٍ اَوْتِ.

التَّلَوُّوْحَاتُ: كِتَابُ كَسَ حَوَاشِي دَوْتِ.

الْمُلْتَفَاحُ: دَحْوَبٌ يَاسْفَرُ كِي وَجْهَ سَ خَمِيْرُ كَمِ

وَ اِلَا.

الْمِيْلُوْحُ: لَسِيَا. دِيْلَا. جِلْدٌ دِيْلِي هُوَ سَ وَادِي

مَوْتِي. پَرِي أَوْرَ پَرِي چَكْمَدَارِي وَ اِلَا. اَلْوَجْهُ كِي

نَآئِكُ كُو بَازِ كَسَ شَكَارُ كَرَسَ كَسَ لِيْ سَ بِنَاهُ دِيَا

جَا تَا سَ.

الْمِيْلُوْحُ وَالْمِيْلُوْحُ وَالْمِيْلِيَّاحُ: جِلْدِي بِهَآئِشٍ

هُوَ سَ وَ اِلَا. جِ مَلَاوِيْحِ. كَمَا جَا تَا سَ "اِبِلٌ

مَلَاوِيْحٌ" جِلْدِي بِهَآئِشٍ هُوَ سَ وَ اِلَا اَوْتِ.

الْمَلُوْرُ: كَا رَهَا دُوْدَهُ. جُو پَرِيوِي اَوْرَ نِيْرُ كَسَ

دَرَمِيَانِ هُوَ. جِسْ كُوَابِ شَامِ قَرِيْبَةُ كَسَ تَا سَ.

لَا زِي تَلُوْرُ لُوْرًا. اِلَيْهِ: بِهَآئِشٍ لِيْنَا — مِثْنُ: رَهَابِيَا

— الشَّيْءُ: كَمَا تَا.

لُوْرٌ تَلُوْرِيْنَا. الشَّقْوُ: چِمْوَارَسَ فِي سِيَادَامِ مَهْرَا.

الْمَلُوْرُ: بِادَامِ. وَوَاحِدُ لُوْرَةٌ.

الْمَلُوْرَةُ: حَقْنٌ فِي كُوَسَ كَسَ قَرِيْبُ كَا كُوَشِ

أَوْرَ دُو دُو هُوَ سَ فِي سَ. الْمَلُوْرَتَانِ: سَرِيْنُ كَسَ دُو

كُرَسَ. كَمَا جَا تَا سَ "اِنَّهُ لَعَوْرُ لُوْرٌ" يَتَنِي دُو

مَتَاجِ هُوَ لُوْرٌ تَالِيْعٌ هُوَ.

الْمَلُوْرِي: بِادَامِ كِي هَشَلُ كَا.

الصَّلَازُ: جَا تَا بِنَاهُ.

أَرْضٌ مَلَاوَذَةٌ بِادَامِ وَادِي سَرَسِيْنِ.

الصَّلُوْرُ: بِادَامِ سَ مَهْرِي هُوِي كِهَجُوْرُ. وَجْهَةٌ

مَلُوْرٌ: حَسِيْنٌ وَوَجْهَةٌ.

الْمَلُوْرِيْتِجُ: اَيْكَ قَسْمُ كَا طَلُوَا لُوْرِيْنِ.

لَا مَن يَلُوْسُ لُوْمَا. الْحَلَاوَاتُ وَ غَيْرُهَا:

كَمَا تَا سَ وَ غَيْرُهُ كِيْلِيْعُ مَهَاطِي وَ غَيْرُهُ وَ حَمِيْرَانَا. صَفْتٌ

لَا تَبْسُ وَ لُوْوَسٌ وَ لُوْسٌ وَ اَلْوَسُ — الشَّيْءُ:

چَكْمَدَارُ — الشَّيْءُ فِي قَمِيْعِهِ: مَتَمَلٌّ فِي مَهْرَا تَا سَ اَوْرَ كَمَا

جَا تَا سَ "هُوَ لَا يَلُوْسُ كَذَا" وَ اِتَا تَا سَ دِيْنَا.

الْوَاوِسَةُ: قَلْبٌ.

الْوَاوِسُ: جَمْعُ لَآئِسِ كِي (چِيْبِي نَاوِلُ وَ نَبُوْلُ)

كَمَا تَا سَ مَتَا ذُقْتُ لُوْرًا وَ اَلْوَاوِسَاتِيْنِي

مِيْنِ لَانِ نِيْسُ چَكْمَدَارُ.

لَا وَصٌ يَلُوْصُ لُوْصًا. دَرَوَاوَسَ كِي حَمِيْرِي سَ

دِيْكِيْنَا — عَتَهُ: اَلْكُ هُوَا بِنَاهُ.

لَوْصٌ تَلُوْصِيْنَا. خَالِصٌ شَرْدُ كَمَا تَا.

لَا وَصٌ مَلَاوَصَةٌ. دَرَوَاوَسَ كِي حَمِيْرِي سَ

دِيْكِيْنَا — اِلَيْهِ: اِسْ طَرَحُ دِيْكِيْنَا كُوِيَا كَسِي اِرَادَةُ

سَ قَرِيْبُ دَسَ رَهَابِ سَ — فَلَانًا عَنُ كَذَا:

قَرِيْبٌ دِيْنَا — الشَّجَرَةُ: دَرَخْتُ كُو كَهَاوِي

سَ كَا نَسَمُ كَسَ اِرَادَةُ سَ دَاكِيْسُ بَاكِيْسُ دِيْكِيْنَا.

الْأَصَةُ الْإِصَةُ عَلَيَّ الشَّيْءِ: كَهْمَا تَا. چَكْمَدَارُ.

اِرَادَةُ كَرَا. كَمَا جَا تَا سَ "مَتَا اَلْصَتُ اَنْ اَخَذْتُ مِنْهُ

شَيْئًا" مِيْنِ لَانِ سَ اِسْ سَ كِي لِيْنِ كَا اِرَادَةُ نِيْسِ

كِيَا.

اَلْبَيْضُ الرَّجُلُ: كِهَبِي زِدُهُ هُوَا.

تَلَوَّضَ تَلَوَّضًا بِلْتَا-لوث پوٹ ہونا۔
الْوَض-مہ۔ کاپ یا سینہ کا درو۔
الْوَاض-شہر خاص۔
الْوَضَة-بیٹھ کا درو۔

المَلَاوض-چاپوسی کرنے والا۔ فرجی۔
لَاظ يَلْوُظُ لَوَّظًا الْخَوْضُ: حوض کو مٹی سے
لینا — الشَّى بِالشَّى: چپکانا — الْإِنْسَانُ:
مارا۔ دھکارا۔ کہا جاتا ہے "لَاظ الشَّى بِقَلْبِي"
چیز میرے دل میں جم گئی — فَلَانًا بِعَيْنِي: نظرد
لگانا — فَلَانًا بِسَهْمِي: تیر مارنا — فَلَانًا
بِفُلَانٍ: لاحق کرنا۔ نسبت کرنا — الشَّى بِجِهَانَا
(— لَاظًا) فِي الْأَمْرِ: اصرار کرنا (— لَوَّظًا وَ
لَوَّظًا وَ لَا وُظًا وَ تَلَوَّظًا) اِغْلَامُ كَرْنَا:
لَوْظُهُ تَلَوَّنَا بِطَلِيْبٍ: خوشبو سے لپٹ
کرنا۔

الِنَّاطَةُ الْبَيْضَا وَالْإِسْتَلَاظَةُ الْإِسْتِلَاظَةُ مَه
بولایا بیٹا۔
الِنَّاطَةُ حَوْضًا: اپنے لیے حوض میں مٹی لگانا۔
کہا جاتا ہے "الِنَّاطَةُ بِقَلْبِي" یعنی میرے دل میں
جم گیا۔

الْبِيَاظُ-سود۔ بیاج۔
الْمُوْظُ-مہ۔ چادر۔ پھر تلامرد۔ سود۔ چپکنے والی
چیز۔ کہا جاتا ہے "إِنِّي لَا جَدْلَةَ لِي قَلْبِي لَوَّظًا"
میں اپنے دل میں اس کی پوست محبت کو محسوس
کرتا ہوں۔

الْأَلْوُظُ-اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ الْوُظُ
بِقَلْبِي" وہ میرے دل کے ساتھ زیادہ چہان
ہے۔

الْمُسْتَلَاظُ-مہ بولایا۔
لَاظُهُ يَلْوُظُهُ لَوَّظًا: جسکی لآظہ۔
الِنَّاطَةُ الْحَاجَةُ: دھوار ہونا۔
الْمَلْوُظُ-تھی یا کوڑا۔

لَاظُهُ يَلْوُظُهُ لَوَّظًا: بیمار کر دینا۔
لَاظَتِ الشَّمْسُ فَلَانًا: رنگ بدل دینا (—
لَوَّظًا وَ لَوَّظًا) الرُّجُلُ: بزدل یا لالچی اور
بد اخلاق ہونا۔

لَاظُهُ يَلْوُظُهُ لَوَّظًا: گھبراہٹ۔ جھگڑا ہونا۔
یا مریض ہونا۔ غم یا عشق سے دل جلتا۔

لَوْحَةٌ تَلَوَّنَا: الْحَبُّ: بیمار کر دینا۔ عوام کہتے
ہیں "لَوَّعَ فَلَانًا" یعنی عذاب دیا۔
الْأَعْتَهُ الْأَعْتَهُ الشَّمْسُ: رنگ بدل دینا۔
الْقَدِيُّ: پستان کے سرے کا کالا اور خمیر ہونا۔

إِنْتَاغَ الْبَيْتَاغَا قَلْبِي: دل کا غم یا عشق سے جل
اٹنا۔ کہا جاتا ہے "زَجُلٌ هَاتِعٌ لِأَبْعِ وَ هَاغٌ وَ
لَاغٌ" یعنی بزدل اور خائف اور مونٹ کے لیے
"هَاعَةٌ لَأَعْتَهُ"

اللَّاعُ: خائف یا بزدل۔ مریض۔ ج لَأَعُونُ
وَلَأَعَةٌ وَالْوَاغُ:
الْمَلَاعَةُ اللَّاعُ كَالْمَوْنُ: تیز خاطر۔ ج لَأَعَاتُ۔
اللَّوْحَةُ: لَاعُ كَالْمَوْنُ: غم یا عشق و محبت کی
طبل۔ کہا جاتا ہے "فِي قَلْبِي لَوْحَةٌ" اس کے دل
میں سوزش ہے۔ پستان کے سرے کی سیاہی۔

لَاْفٌ يَلْوُفُ لَوَّافًا الْقَطْعَامُ: کھانا یا چہان۔ لَأَفَتِ
الدَّابَّةُ الْكَلَا: چوپایہ کا سوجھی کھاس کھانا۔
الْمُوْفُ-مہ — مِنْ الْكَلَا وَ الْقَطْعَامِ: غیر
مرغوب کھاس یا کھانا۔

الْمُوْفُ: ایک قسم کا پودہ ہے جس کی جڑ میں
جنگلی پیاز کی طرح نکلا ہے۔ واحد لَوْفَةٌ۔
الْمُوْفِيُّ: ایک قسم کی نباتات ہے جو پرانے
اسان کے لیے مہرب ہے۔

الْمَلْيُفُ: خشک کھاس۔ (اصل اس کی تَلْيُوفُ
ہے)
الْمُوْفَةُ: ہلین۔

الْمُوْفُ: طہری سازی۔ کہا جاتا ہے كَلَامُ الْمُوْفُ:
بارش سے ترکھاس۔
لَاظُهُ يَلْوُظُهُ لَوَّظًا زَمُ كَرْنَا: لَأَقَى عَيْنَهُ: آنکھ پر
مارنا — الدَّوَاةُ: دوات میں روشنائی درست
کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَا يَلْوُفِي عِنْدَكَ" وہ
تمہارے پاس نہیں ٹھہرتا ہے۔

لَوَّقَى تَلَوَّقًا: الطَّعَامُ: کھجی یا کھن سے تیار
کرنا۔
الْمَلْوُوقُ: نرم کی ہوئی چیز۔
الْمَلْوُوقِيُّ: بیوقوفی۔

الْمَلْوُوقَةُ: لَأَقَى كَالْمَوْنُ: دقت۔ کہا جاتا ہے
"ذَهَبَ فَلَانٌ لَوَّقَةً" فلاں اسی وقت گیا۔ کہا جاتا
ہے مَا ذَاقَ لَوَّاقًا اس نے کچھ نہیں کھیا۔

الْمَلْوُوقَةُ وَالْأَلْوُوقَةُ: کھن۔
الْأَلْوُوقُ: بیوقوف۔

الْمَلْوُوقُ: دوا فروش کا چمچ۔ (مولدہ)
لَاك يَلْوُوكُ لَوَّكًا اللَّقْمَةُ: لقمہ کو آہستہ چہانا
اور صف میں پھرانا — الْفَرْشُ الْمَجَامُ: چہان اور
کانا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَلْوُوكُ أَعْرَاضَ النَّاسِ" وہ
لوگوں کی عیب گیری کرتا ہے وَ الْكَيْفِي الْيَالِي فَلَانٍ
میرا بیٹا فلاں کو پھینچا۔ (اصل الْيَكْبِي ہے)
الْوَاكُ چہانے کی چیز۔ کہا جاتا ہے "مَا ذَاقَ
لَوَّكًا"

الْمَلْوُوءَةُ: سختی و تکلیف۔ کہا جاتا ہے وَقَعَ لِي
الْمَلْوُوءَةُ عَنِّي فِي بَرَا:
لَوَّاءُ: حرف تخمیش و تہمید ہے۔ تین طریقوں
سے مستعمل ہے۔

(۱) دو جملوں پر داخل ہوتا ہے جس میں پہلا جملہ
اسم اور دو سرائعہ ہوتا ہے اور اول کے وجود
سے انقضاء ثانی پر دلالت کرتا ہے جیسے "لَوَّاءُ زَيْدٌ
لَاخِرٌ مَشْكٌ" اگر زید موجود نہ ہوتا تو میں تمہارا
اکرام کرتا۔ اور جب لَوَّاءُ کے بعد ضمیر واقع ہو تو
ضمیر مرفوع ہونا چاہئے جیسے "لَوَّاءُ أَنْفَمُ لَكُنَّا
مُوْمِنِيْنَ"

اور لَوَّاءُ لِي لَوَّاءُ لَوَّاءُ لَوَّاءُ مَتَمَا كُنَّا يَهِ:
(۲) اور تخمیش اور عرض کے لیے اس صورت
میں مضارع کے ساتھ خاص ہے چاہے حقیقتاً ہو
یا نا ہو جیسے "لَوَّاءُ نَسْتَفِيْزُونَ اللّٰهَ" کیوں تم
اللہ سے استغفار نہیں کرتے۔ اور "لَوَّاءُ
أَخْوَاتِي الْيَالِي أَجَلِي قَرِيْبٌ"

(۳) توبخ اور تہمید کیلئے۔ اس صورت میں ماضی
کے ساتھ خاص ہے جیسے "لَوَّاءُ جَاءَ وَأَعْلَبِي
بَأَرْبَعَةِ شَهْدَاءٍ" اور اصل لولاء کی نو ہے جو لا
کے ساتھ مرکب ہے اور اس کیلئے جواب کا ہونا
ضروری ہے۔ اور اس کے جواب میں لام اکثر آتا
ہے مگر جبکہ منفی بلم ہو تو لام کا داخل ہونا مستحب
ہے۔

الْمَلْوُوبُ: دیکھو ماوہ "لَوَّبُ"
لَوَّابِي لَوَّاءَةُ: پشت پھیرنا۔ کہا جاتا ہے "لَوَّاءُ
مُذْبِرٌ"
لَأَمَةٌ يَلْوُومُهُ لَوَّاءُ وَمَلَأُوا وَمَلَأْتُهُنَّ كَلْدًا

العُروب: شغری کا قصیدہ لامیہ۔
 کہا جاتا ہے "أنتَ لَوْمٌ مِنْ فُلَانٍ"۔ تو فلاں سے
 زیادہ قابلِ ملامت ہے۔
 المُتَلَوِّمُ۔ فَا۔ برے فعل کی وجہ سے قابل
 ملامت حاجت پوری کرنے کا شکر۔
 لَوْنٌ تَلَوَّنَا الشَّيْءُ: رنگین کرنا — التَّنْسُؤُ:
 پختگی کا اثر ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے "لَوْنُ الشَّيْءِ
 فِيهِ" بالوں میں سفیدی ظاہر ہوئی۔
 تَلَوَّنَ الشَّيْءُ: رنگین ہونا۔ مختلف رنگ کا ہونا
 — الرَّجُلُ يَتَلَوَّنُ مَرْجَحًا: ہونے والا۔
 الْوَيْلُ الْوَيْلَانَا: بھٹنے کا لفظ۔
 اللوون۔ جو ایک چیز کو دوسرے سے ممتاز کر
 دے۔ رنگ۔ ج. ألوان۔
 اللون۔ حم۔ کہا جاتا ہے "عِنْدَهُ لَوْنٌ مِنْ
 الْغِيَابِ" اس کے پاس کپڑے کی ایک قسم ہے۔
 "وَتَنَاقَلُ كَذَا وَكَذَا الْوَيْلَانَا مِنَ الطَّعَامِ" اس نے
 فلاں فلاں قسم کے کھانے کھائے۔ اور کہا جاتا ہے
 "أَنَّى بِالْوَيْلَانَا مِنَ الْحَدِيثِ" اس نے مختلف قسم
 کی باتیں کیں۔
 التلویں۔ مہ۔ نکلے اور نکلنے کیلئے مختلف قسم کے
 کھانے پیش کرنا۔ کلام میں ایک اسلوب سے
 دوسرے اسلوب کو اختیار کرنا۔
 المُتَلَوِّنُ۔ فَا۔ جو ایک حالت و کیفیت پر قائم نہ
 رہے۔
 لَاهُ يَلْوُهُ لَوْهَا وَ لَوْهَانَا وَ تَلْوَةُ السَّرَابِ:
 چمکنا۔
 اللاهة۔ سانپ۔
 لَوْهُ السَّرَابِ وَ لَوْهَتُهُ وَ لَوْهَتُهُ: سراب کی
 چمک۔
 لَوَاهُ (وَ أَوَاهُ الْعَيْنُ وَاللَّامُ) يَلْوِيهِ لَيْثًا وَ لَيْثًا وَ
 لَيْثَانًا وَ لَيْثَانًا ذَيْبَةً وَ بَدْيِيهَ: قرض میں ٹال منول
 کرنا — فَلَانٌ يَحْقِقُهُ: حق کا انکار کرنا۔
 لَوِيٌّ يَلْوِي لَوِيٌّ الْقَيْحُ أَوْ الزَّمَلُ: تیرا ریت
 کا ٹیڑھا ہونا — التَّنْبُتُ: نباتات کا خشک ہونا —
 المَعْدَةُ أَوْ الظُّهُرُ: معدہ کا درد والا ہونا۔ پیٹھ کا
 خمیدہ ہونا۔ صفت مذکر لَوِيٌّ: صفت مؤنث لَوِيَّةٌ۔
 لَوِيَّةٌ لَوِيٌّ: الحَيَّةُ: سانپ کا کٹھنل مارنا۔
 لَأَوْتُ مَلَاوَةً أَوْ لَوَاةً: الحَيَّةُ الحَيَّةُ: سانپ کا

علیٰ كَذَا: ملامت کرنا۔ صفت فاعلی۔ لایم و
 صفت مفعولی مَلْوَمٌ وَمَلِيْمٌ۔
 لِيْمٌ بِهِ: کاٹا جانا۔
 لَوْمًا تَلَوْنِمَا: ملامت کرنا۔ تشدید مبالغہ کے
 لئے ہے۔ لَوْمٌ لَمَّا: حرف لام لکھنا۔
 لَأَوْمَهُ مَلَاوَةٌ وَ لَوَاةٌ: ایک دوسرے کو
 ملامت کرنا۔
 الْأَمَةُ بِالْأَمَةِ: ملامت کرنا۔ صفت فاعلی مُلِيْمٌ
 اور صفت مفعولی مُلَامٌ اور اسم المَلَامَةِ۔ ج.
 مَلَاوِمٌ۔ الْأَمُ الرَّجُلُ: مستحق ملامت فعل کرنا۔
 تَلَوَّمَ تَلَوَّنَا فِي الْأَمْرِ: انتظار کرنا۔ دیر کرنا۔
 تَلَاوَمُوا: بعض کا بعض کو ملامت کرنا۔
 الْقِتَامُ الْيَتِيمًا: ملامت قبول کرنا۔
 اسْتَلَامَ اسْتَلَامًا: مستحق ملامت ہونا۔
 — أَلِيٌّ ضَيْفُهُ: اچھا سلوک نہ کرنا — إِلَيْهِمْ:
 ایسا فعل کرنا جس پر لوگ ملامت کریں۔
 اللَّائِمُ: فَا۔ ج. لَوْمٌ وَ لَوَامٌ وَ لِيْمٌ۔
 اللَّائِمَةُ: لایم کا مؤنث۔ ملامت۔ کہا جاتا ہے
 "اسْتَحَقَّ اللَّائِمَةُ" مستحق ملامت ہے۔ ج.
 لَوَائِمٌ۔
 اللَّامُ: خوف۔ وجود۔ نزدیکی۔ ہر چیز کا سخت۔
 حرف لام۔ ج. لامات۔
 اللَّوْمُ۔ مہ۔ ملامت۔ خوف۔
 اللَّوْمُ: لوم کا تخفیف شدہ۔
 اللَّوْمُ: بہت ملامت۔
 اللَّوْمِيُّ وَ اللَّوْمَاءُ: ملامت۔
 اللَّامَةُ: خوف۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِالْأَمَةِ"
 قابل ملامت فعل کیا۔
 اللَّوْمَةُ: لام کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ
 بِالْوَمَةِ" ایسا کام کرنا جس پر ملامت کی جائے۔
 اللَّوْمَةُ: جس کو لوگ ملامت کریں۔ انتظار۔ کہا
 جاتا ہے "لِي فِيهِ لَوْمَةٌ" مجھے اس کا انتظار ہے۔
 اللَّوْمَةُ: جو لوگوں کو بہت ملامت کرے۔
 اللَّوَامُ وَ اللَّوَامَةُ: بہت ملامت کرنے والا۔
 "التَّفْسُ اللَّوَامَةُ" وہ نفس جو کسی غلطی کے
 ارتکاب پر ملامت کرے۔
 اللَّامِيُّ: لام کی جانب منسوب۔
 لَأَوِيَّةُ الْعَجَمِ: طغرائی کا قصیدہ لامیہ۔ لَأَوِيَّةُ

سانپ پر لپٹنا۔
 اللَّوِيُّ الْوَاءُ الْقَوْمُ: ریت کے موڑ پر پہنچنا۔
 — الرَّجُلُ يَخْشَعُ كَيْفِيَّتِهِ وَاللَّوَانُ: دوسرے کیلئے
 جو کھانا چھپا کر رکھا ہو اس کو کھانا۔ امیر کے
 جھنڈے کو سینا — الْأَجْيُوثُ لَوَاةُ الْوَاءِ: امیر کا کسی
 کیلئے جھنڈا نصب کرنا — التَّقْبُلُ: سبزی کا
 مرجھانا — فَلَانٌ: بہت تمنا کرنا — پیدہ او
 بِقَوْبِهِ: ہاتھ یا کپڑے سے اشارہ کرنا — پہ۔ لے
 جانا — بِحَقِّي فَلَانٌ: حق کا انکار کرنا — بِمَا
 فِي الْإِنَاءِ: اپنے لیے خاص کرنا — بِهِمْ
 الدَّهْرُ: ہلاک کرنا — بِكَلَامِهِ: کلام میں
 تبدیلی کرنا — التَّنْبُتُ: نباتات کا خشک ہونا۔
 فَلَانٌ اللَّوَاةُ: بلند کرنا اور نصب کرنا۔
 تَلَوَّنَى تَلَوَّنَا الشَّيْءُ: مڑنا — التَّبْرُ فِي
 السَّحَابِ: بجلی کا بالوں میں پر آگندہ چمکنا۔
 تَلَاوَوْا وَيَاوُوا عَلَيَّ فَلَانٍ: جمع ہونا۔
 وَ تَلَاوَوْا بِأَيْدِيهِمْ دُورًا: جمع ہونا۔
 التَّوِيُّ الْيَوَاءُ الْقَيْحُ أَوْ الزَّمَلُ: تیرا ریت کا
 ٹیڑھا ہونا — عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا —
 الشَّيْءُ: مڑنا — لَوِيَّةٌ: دوسرے کے لیے کھانا
 چھپا کر رکھنا۔
 اسْتَلَوِي بِهِمُ الدَّهْرُ: ہلاک کرنا۔
 اللَّوُؤُنُ وَ اللَّوُؤُ: اللَّيْنُ: جمع۔
 اللَّوِي: اسم فاعل۔ ج. لَوَاوُنٌ وَ لَوَاةٌ۔
 اللَّوِيٌّ لَوِيٌّ: بنو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم
 سے تعلق کی جانب منسوب۔
 مَسْفُؤُ اللَّوَيْتِينَ: موجودہ بائبل کی کتابوں میں
 سے ایک کتاب۔
 اللَّوَاءُ: جھنڈا۔ اور یہ ریت سے چھوٹا ہوتا
 ہے اور کہا جاتا ہے کہ لَوَاةٌ اس وجہ سے کہتے ہیں
 کہ بڑے ہونے کی وجہ سے موڑ کے رکھا جاتا
 ہے اور ضرورت ہی کے وقت کھولا جاتا ہے۔ ج.
 الْوِيَّةُ وَ الْوِيَاتُ: کہا جاتا ہے بِعَثْوًا بِالْمِيوَاءِ
 وَ اللَّوَاءِ۔
 اللَّوِي: مہ۔ معدہ کا درد۔ پشت کی کجی۔
 اللَّوِي: بمعنی اللَّامِيُّ جمع اللَّيْنِ۔
 اللَّوِي: باطل باتیں۔
 اللَّوِي: ریت کا موڑ۔ یا ریت کی تنگ جگہ

الْوَأْوَاءُ وَالْوَيْتَةُ

الْوَأْوَاءُ: وادی کے موڑ۔ مملکت کے اطراف۔
الْوَيْتَةُ: ایک پرندہ۔
الْوَيْتَةُ: مؤنث الْوَيْتَةُ: بانی سے دور جگہ۔
الْوَيْتَةُ: ایک قسم کی گھاس، داغ کرنے کا آلہ۔

الْوَيْتَةُ: بد صورتی۔

الْوَيْتَةُ وَالْوَيْتَةُ: عود جس کی دھونی دی جائے۔
الْوَيْتَةُ: قرابتیں۔

الْوَيْتَةُ: زمانہ جاہلیت کے ایک سبت کا نام۔

الْوَيْتَةُ: خشک گھاس۔ مرجھائی ہوئی گھاس۔

الْوَيْتَةُ: ایک درخت کا نام۔

الْوَيْتَةُ: دوسرے کیلئے چھپا کر رکھا ہوا کھانا ج لوایا۔

الْوَيْتَةُ: سخت جھگڑا۔ سخت جگمگو۔ تنہا گوش

تشن۔ مؤنث لَيْتَةُ: الْوَيْتَةُ مِنَ الظَّرْفِ: دور کا

غیر معروف راستہ۔ ٹیڑھا سینگ۔ خلقتا مزی ہوئی

دم۔ ج لئی بِالْمَصْبِ: اور قیاس کے مطابق لئی کسر

یاء کی مناسبت سے ہونا چاہئے۔ کہا جاتا ہے وَمَا

اللَّهُ بِأَخْوَى الْوَيْتَةِ: خدا اس کو بڑی مصیبت میں

جھکا کرے۔

لَوِيٌّ (وَأَوَيْتُهُ الْعَيْنُ بِإِيَابِهِ اللَّامُ) يَلْوِي لَيْتًا

لَوِيًّا وَ لَوِيًّا الْخَيْلُ: رسی بٹنا۔ موڑنا —

الْفَلَامُ: لڑکے کا بیس سال کا ہونا — عَنِ

الْأَمْرِ: سستی کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَوِيْتُ اللَّيَالِي

كَفَّهُ عَلَى الْمَصَا" یعنی بوڑھا بنا دیا — لَيْتًا

لَيْتًا، أَمْرًا عَتِيًّا: پوشیدہ رکھنا — سَوْفًا: چھپانا

— الْخَيْرُ قَلْبًا: بھیر دینا — عَلَيْهِ: مڑنا یا

انتظار کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَرَّ لَيْتًا عَلَى أَحَدٍ"

وہ اس حال میں گزرا کہ نہ تو ٹھہرتا ہے نہ انتظار

کرتا ہے۔ زانہ او بواہیہ: پھیرنا یا اعراض کرنا۔

لَوِيْتُ النَّاقَةَ بِذَنْبِهَا: حرکت دینا — فَلَانًا

عَلَى فَلَانٍ: فضیلت دینا۔ اور کہا جاتا ہے "فَلَانًا

لَا يَلْوِي ظَهْرَهُ" جبکہ شدت بیان کرنی مقصود

ہو۔

لَوِيٌّ تَلْوِيَةً عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دُشوار کرنا۔ کہا جاتا

ہے "لَوِيٌّ أَعْتَقَ الرَّجُلَ" یعنی ان کے اوپر

غالب آیا۔

الْوَيْتَةُ: بواہیہ: بھیرنا۔ الْوَيْتَةُ النَّاقَةُ

بِذَنْبِهَا دَمُ اللَّيْلِ:

تَلْوِيٌّ تَلْوِيًّا وَالْوَيْتَةُ النَّاقَةُ الْخَيْلُ: رسی کا بٹنا

جانا۔

تَلْوِيْتُ الْخَيْتَةِ: کڈنا، مارنا۔

الْوَيْتَةُ: الْأَمْرُ: دُشوار ہونا — عَنِ الْأَمْرِ:

سستی کرنا۔

الْمَلَاوِي: مڑے ہوئے راستے۔ کہا جاتا ہے

"سَلَكُوا الْمَلَاوِي"

مَلْتَوِي: الْوَادِي: وادی کا موڑ۔

الْوَيْتَةُ: لَوِيٌّ كَأَمْرٍ مَرَّةً ج لَوِيٌّ:

الْوَيْتَةُ الْوَيْتَةُ النَّاقَةُ: او مٹنی کا ست چلنا۔

لَا تَتَلْوِي لَيْتًا لَيْتًا: عَنِ كَذَا: روکنا۔ بھیرنا۔ لَا ت

زَيْدًا حَقًّا: حق کا گھٹانا۔

الْوَيْتَةُ الْوَيْتَةُ: عَنِ كَذَا: روکنا۔ بھیرنا۔ کہا جاتا

ہے "مَا أَلَا تَه مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا" اس نے اس کے

عمل میں کچھ کم نہیں کیا۔

الْوَيْتَةُ: کنارہ گردان۔ مٹنی لَيْتًا ج الْوَيْتَةُ:

لَا ت: دیکھو۔ اُت

لَيْتُ: حرف تمنی ہے۔ مستعمل پر اکثر آتا ہے جیسے

لَيْتُ الشَّيْبَانُ يَتَعَوَّذُ كَأَشْ بَوَانِي لَوْتِي: اور ممکن پر

کم جیسے لَيْتُ الْعَلِيلُ يَصْخُ: کاش بیمار تندرست

ہو تا اور یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے اور

لَيْتُ کے ساتھ ما متصل ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی اسما

ہی پر داخل ہوتا ہے اسی وجہ سے لیتما قائم زَيْدٌ

کہتا جائز نہیں اور اس وقت عمل و ابطال عمل

دونوں جائز ہیں عمل تو انحصار بلا اسم کی وجہ سے

اور ابطال عمل دوسرے حروف مشبہ بالفعل پر

حاصل کی وجہ سے۔ اور جب لَيْتُ کے ساتھ یا متکلم

متصل ہو تو لَيْتِي و لَيْتِي دونوں کہا جاتا ہے۔ مگر

لَيْتِي نادر ہے۔

لَيْتُ تَلْوِيًّا وَ لَيْتُ تَلْوِيًّا تَلْوِيًّا الرَّجُلُ: شیر

جیسا ہوتا۔

لَا تَيْتَةُ مَلَايَتُهُ: شیر جیسا حاملہ کرنا۔ شیر کی صفت

میں فخر کرنا۔

اسْتَلَيْتُ: شیر جیسا ہونا۔

الْمَلَايَةُ: شیر۔

الْمَلَايَةُ: شیر۔ ایک قسم کی مڑی۔ قوت و شدت

زبان آور بلخ۔ ج لَيْتُ و مَلَيْتُهُ:

الْمَلَيْتَةُ: شیرنی۔ مضبوط اونٹنی۔ ج لَيْفَات:

الْمَلَيْتَةُ: بہار۔ مؤنث لَيْفَات: ج لَيْتُ اور کہا

جاتا ہے "هُوَ الْمَلَيْتُ أَصْحَابُهُ" وہ اپنے ساتھیوں

میں زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔

الْمَلَيْتَةُ: مضبوط قوی۔

الْمَلَيْتَةُ: موٹا۔ خوار و زلیل۔

الْمَلَيْتَةُ: قموڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "مَا تَوَكَّلْتُ لَهْ

لَيْتًا" میں نے اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔

لَا تَلْوِيَنَّ لَيْتًا الرَّجُلُ: ہٹنا۔ لیتا۔

الْمَلَيْتَةُ: جائے پناہ۔

لَيْسَ يَلْمِشُ لَيْسًا الرَّجُلُ: دلیر و بہادر ہونا

— عَتَهُ: ناقص ہونا۔

لَيْسَ: مختلف طریقے سے مستعمل ہے۔

(۱) نفی حال کیلئے۔ اور قرینہ سے حال کے علاوہ کی

بھی نفی کرتا ہے جیسے "لَيْسَ خَلَقَ اللَّهُ وَشَلَهُ"

اور یہ ایسا فعل ہے جس کی گردان نہیں آتی اس

کا وزن فعل ہے مگر میں کلمہ کو تخفیفاً ساکن کر دیا

گیا ہے اور یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے

جیسے "لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا" اور اس کی خبر کا اس کے

اوپر مقدم کرنا جائز نہیں اور کبھی اس کے ذریعہ

سے اشتہاء کیا جاتا ہے جیسے "جَاءَ نِي الْقَوْمِ

لَيْسَ زَيْدًا" اس صورت میں اسم ضمیر مستتر ہے

اور جو اسم کے بعد میں واقع ہے وہ بنا بر خبریت کے

منسوب ہے۔

(۲) یہ کہ خبر مع الّا کے ہو جیسے لَيْسَ الْقَلْبُ إِلَّا

الْمُسْكُ:

(۳) یہ کہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوا مبتدا اور خبر کہ

دونوں مرفوع ہوں اور اس صورت میں اسم ضمیر

شان ہوگی اور جو جملہ کے بعد میں واقع ہو گا وہ خبر

ہو گا اور عملاً منصوب ہو گا۔ جیسے لَيْسَ يَقْوَمُ زَيْدٌ

لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمٌ: اور لَيْسَ کی خبر میں تاکید نفی

کیلئے داخل کرتے ہیں اس صورت میں خبر لفظاً

مجبور اور عملاً منصوب ہوتی ہے۔ جیسے لَيْسَ اللَّهُ

بِظَالِمٍ:

تَلَيْسَ الرَّجُلُ: صاحب قوت ہونا۔

تَلَايَسَ الرَّجُلُ قَلْبًا لَيْسًا: نیک خو ہونا۔


عَتَهُ: چشم پوشی کرنا۔

الْتَأَقُ الْبَيْتَانِ فَلَانٌ بَقْلَانٍ دوسری کرتا۔
 لَهْ، چمٹا۔ الرَّجُلُ۔ بے نیاز ہونا۔ اور کہا
 جاتا ہے "الْتَأَقُ قَلْبِي بَقْلَانٍ" میرا دل فلان کے
 ساتھ لگ گیا۔
 اِسْتَلَفَهُ بِهِ۔ چپکانا۔
 الْتِئَاقُ۔ چراگاہ۔ ثابت قدمی۔ مستقل مزاجی۔
 الْتِئَاقُ۔ لگ کاشعل۔
 الْتِئِاقُ۔ ایک سیاہ چیز ہے جس کو سرمہ میں
 ملائے ہیں۔
 الْتِئِاقُ۔ چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے۔
 الْتِئِاقَةُ۔ اسم ہے لاق سے۔ دوات کا صوف
 دیوار میں لگانے کی مٹی۔ ج۔ لیتق۔
 وَجْهَةٌ مُتَأَقَاتٌ۔ خوبصورت و دل پسند چہرہ اور
 اصل متعلق بہ ہے۔
 لَا يَلْتَمِسُ فُلَانًا بَلَدًا۔ رات کیلئے اجرت پر لینا اور کہا
 جاتا ہے "عَامِلَةٌ مُتَأَقِمَةٌ" لیل سے جیسے
 "عَامِلَةٌ مُتَأَقِمَةٌ" یوم سے۔
 اَلْآنَ الْقَوْمُ اِلَّا لَا وَالْيَتِيمُوا اِلَّا لَا رات میں
 داخل ہونا۔
 لَيْلٌ لَا يَلِيْلُ۔ لمبی کالی رات۔ مینے کی کالی رات۔
 اللیل۔ رات (مذکورہ مؤنث) ج اللیلالی۔ یا کی
 زیادتی کے ساتھ خلاف قیاس۔ اور لیلالی بھی کہا
 گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ لیل" واحد معنی میں جمع
 کے ہے اور اس کا واحد لیلہ ہے جیسے تموز و
 تمرہ۔ اور کہا گیا ہے کہ لیل مثل لیلۃ ہے جیسے
 کہ عشی و عشیۃ مفرق یہ ہے کہ لیل نماز
 کے مقابل ہے اور لیلہ یوم کے۔
 اللیلۃ۔ لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو
 رات کو چلنا پسند کرے۔
 لَيْلَى الْحَمْرُ: شراب کا اٹھنا۔ اَمَّ لَيْلَى: کالی
 شراب۔
 لَيْلَةٌ لَيْلَاءٌ وَ لَيْلَى: سخت کالی طویل رات جیسے
 لیل" لایل"۔
 اللیلۃ۔ رات بائبل کا واحد۔ ج لیلات۔
 لَيْلٌ اَلَيْلُ وَ هَلَيْلٌ: سخت کالی طویل رات
 لیل" لایل" کے۔
 اللیم۔ صلح۔ شکل و صورت میں مشابہ۔ کہا
 ہے "هُوَ لَيْمٌ" وہ اس کے شکل و صورت میں

الْتَبِيعُ۔ کالی بیوقوفی۔ کہا جاتا ہے عَلَامًا سَبِيعٌ
 لَيْعٌ: خوشگوار کھانا۔
 الْتَبِيعُ۔ صاف گفتگو نہ کر سکنے والا۔ بیوقوف
 مؤنث لَبِيعَةٌ ج لَبِيعٌ اور اسی سے مثل ہے "هُزِي
 بِمَا عِنْدَكَ يَا لَبِيعَاءُ" اے بیوقوف عورت جو کچھ
 تیرے دل میں ہے اس کو بیان کر۔
 لَاقٌ يَلْتَبِعُ لَيْفًا: الطَّعَامُ: کھانا۔
 لَيْتَقَتْ قَلْبِي فَا لَيْفًا: فَسَبِيلَةُ التَّحَلُّلِ: بہت اور موٹی
 چھال والا ہونا۔ لَيْفٌ فُلَانٌ اللَيْفُ: لیف کو بتانا۔
 المَلْتَبِيعُ فُلَانًا: کسی کی کھال کو سمجھ کر ریشے
 سے ملنا۔
 اللَيْفُ۔ سمجھ کر درخت کی چھال و واحد لَيْفَةٌ۔
 اللَيْفَانِي۔ سمجھ کر کی چھال کے مشابہ۔
 لَيْحِيَةٌ لَيْفَانِيَةٌ: گھٹی اور جھیلی ہوئی داڑھی۔
 المَلْتَبِيعُ۔ حمام میں سمجھ کر کی چھال سے بدن کو
 ملنے والا لازم۔
 لَاقٌ الدَّوَاةُ يَلْتَبِعُهَا لَيْفًا وَ لَيْفَةٌ: صوف ڈالنا۔
 روشنائی درست کرتا۔ دوات کو مَلْتَبِيعَةٌ کہتے ہیں۔
 لَاقَتِ الدَّوَاةُ: روشنائی کا صوف سے چمٹنا۔
 لَاقٌ يَلْتَبِعُ لَيْفًا وَ لَيْفًا وَ لَيْفًا وَ لَيْفًا بَقْلَانٍ:
 پناہ لینا اور چمٹنا۔ بہ الثَّوْبُ: بدن کے مناسب
 ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا لَقِيتُ بَعْدَكَ بَارِئِي" میں
 تیرے بعد کسی زمین میں نہیں رہا۔ "وَ هَذَا اَهْوَلُ
 يَلْتَبِعُ بَكَ وَ لَا يَلْتَبِعُكَ" یہ کام تمہارے مناسب
 نہیں اور کہا جاتا ہے "مَا يَلْتَبِعُ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا"
 تمہارے لئے یہ مناسب نہیں کہ تم ایسا کرو۔ "وَ
 فُلَانٌ لَا يَلْتَبِعُ بَيْلِدٍ" فلاں کسی شہر میں نہیں
 ٹھہرتا۔
 لَيْقٌ الطَّعَامُ: کھانے کو نرم کرنا۔ التَّرْيِيدُ
 بِالسَّمَنِ: زیادہ گھی ڈالنا۔
 اَلْاَقُ الدَّوَاةُ اِلَاقَةٌ: صوف ڈالنا۔ اور روشنائی
 درست کرتا۔ فُلَانًا يَنْفِسُهُ: اپنے ساتھ لگا لینا۔
 کہا جاتا ہے "مَا اَلْفَسِي النَّصْرَةَ" یعنی میں بصرہ
 میں نہیں ٹھہرا۔ "وَ فُلَانٌ يَأْتِي لَيْقَةً بَلَدًا" فلاں کسی
 شہر میں نہیں ٹھہرتا۔ "وَ فُلَانٌ مَا يَلْتَبِعُ يَدَهُ شَيْئًا"
 یعنی فلاں کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی "وَ هَذَا
 سَبِيعٌ لَا يَلْتَبِعُ شَيْئًا" یعنی یہ اس کی توار ہے کہ ہر
 چیز کو کاٹ رہی ہے۔

الْتَبِيعُ۔ نڈر۔ بہادر۔ اونٹ کہ جو کچھ لاویا
 جائے اٹھالے۔ خانہ نشین۔ شیر۔ ٹیک۔ خر۔ مؤنث
 لَبِيعَةٌ ج لَبِيعٌ کہا جاتا ہے "قَوْمٌ لَبِيعٌ وَ لَبِيعٌ"
 یعنی سخت قوم "وَ اَبِلٌ لَبِيسٌ عَلَيَّ الْحَوْضِ"
 حوض سے نہ جدا ہونے والا اونٹ۔
 المَلْبِيسُ۔ ست۔ دیر کرنے والا۔
 لَاحِضٌ يَلْبِيسُ لَيْصًا: بیکو ہونا۔ الشَّيْءُ:
 اکھیرنے کے لیے ہلانا۔
 اَلْاَحْضُ اِلَاحِضٌ الشَّيْءُ: اکھیرنے کیلئے ہلانا۔
 فُلَانًا عَنِ كَذَا: بھلانا۔
 لَاحِضٌ يَلْبِيسُ لَيْظًا: چمٹنا۔ الشَّيْءُ بَقْلِيهِ
 محبوب ہونا۔ دل سے چپکانا۔ فُلَانًا بَقْلَانٍ
 لائق کرنا۔ اللہ فُلَانًا لِحْتِ: کہا جاتا ہے
 "مَا يَلْبِيسُ بِهِ التَّجْنِيمُ" یعنی نعمت اس کے لائق
 نہیں۔
 لَيْظُهُ وَ لَيْظًا: چپکانا۔
 اَلْاَعْلَامُ: لَاطَةٌ: چپکانا۔
 اللبیطاط۔ سچ۔ پانچا۔ سود۔ رنگ۔
 اللبیط۔ ہم۔ رنگ۔
 اللبیط۔ رنگ۔ کھال۔ عادت۔ ہر چیز کا چھلکا۔ کہا
 جاتا ہے "اَتَيْتُهُ وَ لَيْظُ الشَّمْسِ لَمْ يَفْتَسِرْ" یعنی
 میں اس کے پاس دن کے ابتدائی حصہ میں قبل
 اس کے کہ آفتاب کی سرخی نازل ہو آئی۔
 اللبیطۃ۔ ترکل بامس وغیرہ کا چھلکا جو چمٹا رہتا
 ہے، کمان۔ نیزے کا ڈنڈا۔ ج لَيْظٌ وَ لَيْطٌ
 وَ اَلْبِطَاطُ۔
 لَاحِ يَلْبِيسُ لَيْعَانًا: زچ ہونا۔ بزدل ہونا۔ گھبرانا
 — نَوْعَةٌ وَ لَيْعَةٌ، اَلْجُوعُ فُلَانًا: بھوک کا
 سوزش میں مبتلا کرنا۔
 اَلْاَعُ: زچ ہونا۔ تنگ دل ہونا۔
 رِيحٌ لَيْعٌ: جیرا گرم ہوا۔
 اللبیطۃ۔ لَاحِ کا اسم مرہ۔ لَيْعَةُ اَلْجُوعِ: بھوک
 کی سوزش۔
 لَاحُهُ يَلْبِيسُهُ لَيْعًا: الشَّيْءُ: بھلانا۔ لَاحُ
 الشَّيْءُ: لینے کے لیے بھلانا۔
 تَلْبِيعٌ: بیوقوف ظاہر کرنا۔
 اللبیطۃ۔ بیوقوف۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ لَيْبَاعَةٌ:
 بیوقوف مرد۔

<p>اللَّيْن - نرم - ج لَيْسُونَ - والَيْتَاء - الأَلْيَن - نرم - ج الأَيْن - بہت نرم - المَلَيِّنَة - نرمی - کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَكُدُو مَلَيِّنَةٍ" وہ نرمی و مریانی والا ہے - المَلَيِّنِينَ مِنَ الْأَذْوِيَةِ - قبض کشادہ - اللَّيْثُ فَرَّوُ التَّيْلُ فَرَّوُ - کنول کا پھول - لَأَفَّ يَلِيْنُهُ لِيْنَهَا - چھپنا - بلند ہونا - اللَّيْثَان - ایلان - محل جو کشادہ ہو اور تین اطراف سے گھرا ہوا ہو - اللَّيْنَاء - يَابِتَةُ الْعَيْنِ وَاللَّام - ایک قسم کا سفید قلعہ (- وَاللَّيْنَاءُ بَالِي سَے دُور جگہ -</p>	<p>نرم پاتا - اللَّيْنَان - معم - آسودہ زندگی - کہا جاتا ہے "وَلِيْن لَيْنَانٍ مِنَ الْعَيْشِ" وہ آسودہ زندگی اور ناز و نعمت میں ہے - اللَّيْن - نرم - ج لَيْسُونَ - اور اتباع کی بنا پر کہا جاتا ہے وَجَلَّ هَيْئِن لَيْن - اللَّيْن - معم - مجھ کو سمجھو رکے علاوہ ہر ایک قسم کی کھجور کا درخت واحد لَيْنَةٌ - اللَّيْنَةُ - لَيْنِ كَامُونِث - لان کا اسم مرثہ - تکبیر اور اس کو نرمی کی بنا پر لیتے کہتے ہیں - اللَّيْنَةُ - معم - لان کا اسم نوع - کمزوری - ڈھیلا پن - اللَّيْنَانَةُ - نرمی -</p>	<p>مشابہ ہے - اللَّيْمُون - ليمو (دخيل) لَانَ يَلِيْنُ لَيْنًا وَلَيْنًا وَلَيْنَةً - نرم ہونا - صفت لَيْنٌ وَلَيْنٌ - اور اسم اللَّيْنَان - بمعنی نرمی - لَيْنُ الشَّيْءِ تَلَيْنًا وَالْأَنَةُ وَالْأَيْنَةُ الْإِيْنَانَا - نرم کرنا - کہا جاتا ہے لَانَ لِقَوْمٍ حَتَّاحَةً - اس نے قوم سے نرم برتاؤ کیا - لَأَيْنَةُ مَلَايْنَةً وَلَيْنَانَا - نرمی کرنا - نرم برتاؤ کرنا - مداحت کرنا - تَلَيْنُ الشَّيْءِ تَلَيْنًا : نرم ہونا — لِفْلَانِ : چالوسی کرنا - اسْتَلَانَ اسْتِلَانَةً - الشَّيْءُ : نرم سمجھنا -</p>
--	--	--



مَیْمَر (س) مَاوَا - المَجْرَحُ: زخم کا خراب ہونا اور سوجنا — عَلِيٌّ فُلَانٍ: دشمنی سوجنا۔
 اِمْتَارَ عَلِيٌّ فُلَانًا: کینہ کرنا۔
 مَاعَاةٌ هُمَا مَاعَاةٌ مَعَاةٌ مَعَاةٌ: معاشرت کرنا۔
 هُوَ فِيهِ فَعْلُهُ: برابری کرنا۔ مَاعَاةٌ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ فساد پر آکسانا۔
 تَمَاعَاةٌ تَمَاعَاةٌ: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔
 الْمَعْيُورُ مِنَ الْأُمُورِ: سخت و دشوار () —
 وَالْمَعْيُورُ فَسَادًا كَلِيمًا:
 الْمَعْيُورَةُ عِدَاةٌ: چغل خوری۔ جعفر۔
 أَمْرٌ مَعْيُورٌ: سخت۔
 مَأَسٌ (ف) مَأَسًا عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد انگیزی کرنا — الدَّبَاغُ الْجَلْدُ:
 چرم ساز کا کھال کو ملانا (ا) — وَ مَيْسٌ (س)
 مَأَسًا المَجْرَحُ: زخم کا کشادہ ہونا۔
 الْمَأْسُ: مہم۔ وہ شخص جو کسی کی نصیحت قبول نہ کرے۔
 الْمَائِسُ وَالْمَأْسُ وَالْمُؤْسُ وَالْمَيْمَاسُ
 وَالْمَيْمَاسُ: چغل خور۔ فساد انگیز۔
 مَأَسَةٌ (ف) مَأَسًا عَلَيْهِ بِكَذَا: دفع کرنا۔ ہٹانا
 مَأَسَ الْمَطْرُ الْأَرْضُ: سیراب کرنا۔ مطر کو
 مَيْمَشُ کہتے ہیں۔
 مَيْقٌ (س) مَأَقًا الصَّبِيُّ: سسکی لینا۔ صفت
 مَيْقٌ — الرَّجُلُ شَدِيدٌ غَيْظًا سَرُونًا لَنَا۔
 أَمَاقٌ: سسکی لینا۔
 اِمْتَأَقٌ: سسکی لینا — غَضَبِيَّةٌ: سخت
 غصبناک ہونا — اِنِّي بِالْبَيْكَاةِ: روانہ ہونا۔
 الْمَأَقُ وَالْمُؤَقُ وَالْمُؤَقُ جِ مَأَقٌ وَ أَمَاقٌ
 وَ مَوَاقٍ وَ مَأَقِيٍّ وَ الْمَوَاقِيٍّ وَ الْمَوَاقِيٍّ
 وَ الْمَأَقِيٍّ: ج مَأَقِيٍّ: ناک کی طرف کا گوشہ

(۳) وہ جو جزا کے لیے ہو جیسے "مَا يَفْعَلُ أَلْفَعْلُ"
 (۴) وہ جو تعجب کیلئے ہو جیسے "مَا
 أَحْسَنَ زَيْدًا"
 (۵) وہ جو فعل کے ساتھ مصدر کی تاویل میں ہو
 جائے جیسے "بَلَّغْنِي مَا صَنَعْتَ"
 (۶) وہ جو نکرہ ہو اور اس کیلئے صفت لازم ہے
 جیسے "مَهْرُوتٌ بِمَا مَعْجَبٌ لَكَ"
 (۷) وہ جو ابہام کیلئے ہو جیسے "أَعْطِنِي كِتَابًا مَا"
 یعنی کوئی کتاب مجھے دو۔ "جَاءَ لِأَمْرٍ مَا" کسی کام
 کیلئے آیا۔ اس کا نام ابہامی ہے۔ اور "عَسَلْفُهُ
 عَسَلًا يَعْمًا" کی تقدیر عَسَلْتُهُ نَعْمَ الْعَسَلُ ہے۔
 الْمَاهِيَةُ مِنَ الْأُمُورِ وَالشَّيْءُ: حقیقت طبعیت
 توام شی یا ہر وہ چیز جو ماہر کے جواب میں واقع ہو۔
 الماء۔ دیکھے موه۔
 مَوْجٌ (ک) مَوْجًا وَجَةً: یو توف ہونا۔
 — الْمَاءُ: پانی کا کڑواؤ کھاری ہونا۔
 الْمَآجُ: یو توف۔ مضطرب۔ اضطراب۔ کڑوا
 کھاری پانی۔
 مَاذَا (ف) مَاذَا: النَّبَاتُ أَوِ الشَّجَرُ: نباتات کا
 لہلہانا۔ تروتازہ ہونا۔ جڑ میں پانی پتا ہوا ہونا۔ نرم و
 نازک ہونا۔
 أَمَاذَا الرَّيُّ النَّبَاتُ: نباتات کو تروتازہ کرنا۔
 اِمْتَأَدًا الْخَيْرُ: بھلائی حاصل کرنا۔
 الْمَادُّ وَالْيَمُودُ: تروتازہ و نرم و نازک۔ کہا
 جاتا ہے "رَجُلٌ أَوْ غَصْنٌ مَادُّ وَيَمُودٌ ذَوُّ جَارِيَةٍ
 مَادَّةٌ وَيَمُودٌ وَيَمُودٌ وَدَةٌ" نرم و نازک (مروا
 شرح تالیفی)
 الْمَتَيْدُ: نازک۔ ناز پروردہ۔
 مَاوَزٌ (ف) مَاوَزًا الْبِسَاءُ: وسیع کرنا — بَيْنَ
 الْقَوْمِ: فساد کرنا۔ فساد پر آکسانا۔

م۔ حرف ہے جو جمع ذکر پر دلالت کرتا ہے۔
 جیسے "ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي
 الْأَرْضِ" اور کبھی حرف قسم ہوتا ہے اور لفظ اللہ
 کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسے "مَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ"
 اور کبھی حرف جر کے بعد استفہام ہوتا ہے جیسے
 "بِمَ وَعَلَامٌ" کیوں؟ اور اصل میں یہ استفہامیہ
 ہے جس میں سے الف محذوف ہے اور میم کی
 حرکت فتح کی باقی رہ گئی۔
 ماد و قسمیں ہیں۔ حرفیہ و اسمیہ۔
 حرفیہ کی چند قسمیں ہیں۔
 (۱) نافیہ۔ جیسے "مَا هَذَا بَشَرًا"
 (۲) زائدہ۔ جیسے "فِيمَا رَحِمَةٌ مِنَ اللَّهِ
 لِنْتَ لَهُمْ"
 (۳) کاذبہ۔ جیسے "كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ
 إِلَى الْمَوْتِ"
 (۴) مصدریہ جیسے "وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
 الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ"
 (۵) مصدریہ ظرفیہ جیسے "وَأَوْصَانِي
 بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا"
 اسمیہ کی قسمیں حسب ذیل ہیں۔
 (۱) استفہامیہ۔ اور اس سے غیر زدی العقول
 کے متعلق سوال ہوتا ہے جیسے "مَا عِنْدَكَ"
 کے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے جیسے "مَا زَيْدٌ"
 اس کے جواب میں مثلًا عاقل یا احمق کہا جائے گا۔
 اور جب اس پر حرف جار داخل ہو تو الف
 محذوف ہوتا ہے اور فتح میم پر باقی رہتا ہے جیسے
 بہم و علامہ اور کبھی میم ساکن کیا جاتا ہے۔
 (۲) موصولہ جیسے "مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا
 عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ"

مَتَشَّ (ض) مَتَشَّ الشَّيْءُ: اَلْكَيْسُ يَوْمَ كَحِيرَا۔
جمع کرنا — اَحْلَافَ النَّاقَةِ: آہستہ آہستہ
دوہنا۔

المَتَشَّ والمَتَشَّ۔ جو انوں کے ناخن کی
سفیدی۔

مَتَعَ (ف) مَتَعًا وَمُتَعَّةً بِالشَّيْءِ: لے جانا۔

مَتَعَ (ف) مَتَوْعًا الشَّيْءُ: لےنا ہونا —

التَّهَارُ: دن کا بلند ہونا — التَّيْبُذُ: نیبڑ کا تخت

سرخ ہونا — الرَّجُلُ: زیرک ہونا —

السَّرَابُ: دن کے ابتدائی حصہ میں بلند ہونا —

الْحَبْلُ: رستی کا مضبوط ہونا (— مَتَعًا وَمُتَعًا)
بِفُلَانٍ: جھوٹ بولنا (— مَتَعًا وَمُتَعَّةً)

بِالشَّيْءِ: لے جانا۔

مَتَعَ (ك) مَتَاعَةَ الرَّجُلِ: زیرک ہونا۔

مَتَعَ الشَّيْءُ: لےنا کرنا — هُوَ اللّٰهُ: طویل عمر

دینا۔

— هُوَ اللّٰهُ بِكَذَا: مدت تک نفع اٹھانے دینا۔

— الْمَزَاةُ الْمُطْلَقَةُ: مطلقہ عورت کو متعہ دینا۔

أَمْتَعَهُ اللّٰهُ بِكَذَا: مدت تک نفع اٹھانے دینا۔

اور کہا جاتا ہے "أَبْقَاكَ اللّٰهُ وَأَمْتَعَكَ بَلَدٌ" یعنی

اللّٰہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اَمْتَعَ بِمَالِهِ: فائدہ

اٹھانا — عَن كَذَا: لے نیاز ہونا۔ کہا جاتا ہے

"أَمْتَعْنِي بِفِرَاقِهِ" اس نے اپنے فراق و جدائی کا

سامان مجھے دیا۔

تَمَتَّعَ وَإِسْتَمْتَعَ بِكَذَا وَمِنْ كَذَا: مدت

تک فائدہ اٹھانا — بِمَالِهِ: آسودگی کے ساتھ

زندگی بسر کرنا۔ تَمَتَّعَ: حج تمتع کرنا۔

الْمَتَّعُ وَالْمَتَّعُ۔ کمر۔

المُتَّعَةُ وَالْمُتَّعَةُ۔ اسم ہے تَمَتَّعَ کا۔ تھوڑا

توشہ۔ تھوڑی خوراک۔ شکاری یا کھانا جس سے

فائدہ اٹھایا جائے۔ کہا جاتا ہے "أَبْغَيْتُ مُتَّعَةً

أَعْيِشُ بِهَا" میرے لیے تھوڑی سی خوراک

تلاش کرو جس سے زندگی بسر کر سکوں المتعہ:

چیز جس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے پھر فنا ہو
جائے۔ کہا جاتا ہے "إِنَّمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ"
ج اُمِّيَعَهُ ج اَمَائِعُ وَ اَمَائِعُ۔

الْمَتَائِعُ۔ فاجر چیز کا لےنا۔ ہر چیز کا عمدہ۔ نہایت عمدہ۔

بہت سرخ شراب و سرکہ۔ جھگی ہوئی ترازو۔

مضبوط یعنی ہوئی رستی۔ زَجَلُ مَتَائِعٍ: افعال خیر میں

کامل۔

مَتَكَ (ن) مَتَكَ الشَّيْءُ: کانا۔

مَاتَكَهُ مَمَاتَكَهُ فِي الشَّيْءِ: حج کی مہارت میں

غالب ہونا۔

تَمَتَّكَ الشَّرَابُ: گھونٹ گھونٹ پینا۔

الْمَتَّكَ وَالْمَتَّكَ وَالْمَتَّكَ: کبھی کی تاک۔

لیموں۔ سوس۔ مَتَّكَ الذَّنْبَابُ: کبھی کی بیٹ۔

مَتَّلَ (ن) مَتَّلًا الشَّيْءُ: ہلانا۔ زور سے ہلانا۔

مَتَّنَ (ك) مَتَانَةً۔ مضبوط و قوی ہونا۔ صفت

مَتَّنَ وَمَتِينٌ۔

مَتَّنَ (ن) مَتُونًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

الرَّجُلُ: قسم کھانا۔ سفر کرنا۔ بِفُلَانٍ: پورے

دن ساتھ چلنا — الشَّيْءُ: کھینچنا — الكَيْشُ

میدڑھے کے بیضہ کو موع رنگوں کے نکالنا — هُوَ

بِالسُّوْطِ: کوڑے سے بہت مارنا۔

مَتَّنَ (ن) وَضَ مَتَّنًا وَمَتَّنًا: پیٹھ پر مارنا۔

مَتَّنَ الشَّيْءُ: مضبوط بنانا — الدَّلْوُ: ڈول کو

مضبوط بنا دینا — الْحَيْضِمَةُ: خیمہ کو مضبوط کرنا

— الطَّعَامُ: مصلحہ سے عمدہ بنانا — لِمَنْ

سَابَقَهُ: آگے بڑھنے والے سے یہ کہنا کہ فلاں

مقام پر آگے بڑھ جاؤ اور میں تم سے آکر مل جاؤں

گا۔

مَاتَنَ فَلَانًا: نالانا۔ بہت دور کر دینا — هُوَ فِي

الشَّيْءِ: مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا

مُمَاتَنَةٌ" ان کے درمیان ہر چیز میں مقابلہ ہے

"مَاتَنَ الرَّجُلُ" جیسا معاملہ اس کے ساتھ کیا گیا

کتاب کی اصل عبارت شرح و حاشیہ کے علاوہ

— اللَّعْبَةُ: لغت کے اصول و قواعد اور اس کے

مفردات۔ کہا جاتا ہے "مَسَارِ مَتَّنَ التَّهَارُ" یعنی

سارے دن چلتا رہا۔ مَتَّنَا الظَّهْرَ پیٹھ کے دونوں

طرف کے پیلوچ مَتَّنَ وَمَتُونٌ۔

الْمَتَّنَةُ: سخت و بلند زمین۔ مَتَّنَةُ الظَّهْرِ: پیٹھ کا

پیلوچ مَتَّنَ وَمَتُونٌ۔

الْمَتِينُ: مضبوط۔ قوی۔ کہا جاتا ہے "حَبْلٌ

مَتِينٌ" مضبوط رستی "وَرَأَيْتُ مَتِينٌ وَفِي زَاوِيَةِ

مَتَانَةٍ" عجیبہ رائے۔ اس کی رائے میں سنجیدگی

ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے

ہے یعنی باری تعالیٰ قوی و غالب ہے، اس کو

افعال میں مشقت اور رکفت لاحق نہیں ہوتی۔ ج

مَتَانٌ۔

الْمَتَانُ: دو ستونوں کے درمیان کا فاصلہ۔ ج

مَتْنٌ

الْمَتْنَيْنِ مَعًا (— وَ التَّمَتُّانِ) خیمہ کی رسیاں۔

ج تَمَتَّانِيْنِ۔

الْمَتَانُ: فاتن کتاب کا لکھنے والا۔

سَبَّزَ مَتَّانِيْنِ: سفر بید۔ کہا جاتا ہے "مَسَارِ سَبَّزَا

مُتَّانًا" وہ تیز چلا۔

مَتَّانَ (س) مَتَّانًا: گمراہی میں مبتلا ہونا۔

مَتَّانَ (ف) مَتَّانًا الدَّلْوُ: ڈھول کھینچنا۔

تَمَتَّانَ: حیران ہونا۔ بیوقوف ہونا۔ بغیر خوبی کے

وصف کا طالب ہونا۔ تکبر کرنا۔ بعید ہونا۔ مبالغہ

کرنا۔ گمراہی اور بیوہ باتوں میں مشغول ہونا۔

تَمَاتَنَةُ عَنِ الشَّيْءِ: غفلت برتنا — الْقَوْمُ:

دور ہونا۔

مَتَّانِيْنًا مَتَّانًا الشَّيْءُ: کھینچنا۔ مَتَّانًا بِالْعَصَا:

لاٹھی سے مارنا۔

أَمْنِيْ اِمْتَاءَةً۔ ا۔ بری چال چلنا۔ زیادہ رزق والا

ہونا۔ بڑی عمر والا ہونا۔

تَمَتَّنِيْ: لغت ہے تمطیٰ میں بمعنی انگڑائی لینا۔

مَتَّنِيْ: اسم استفہام ہے زمانہ کیلئے۔ اسم شرط

ہے جلد شرطیہ کے دونوں فعلوں کو جزم دیتا ہے

جیسے مَتَّنِيْ اَضَعَ الْعَصَامَةَ تَعْرِفُوْنِيْ

مَتَّنِيْ يَمْتَنِيْ مَتَّنِيْ الشَّيْءُ: کھینچنا۔

مَتَّنَ (ن) مَتَّنًا: العَظْمُ: ہڈی سے گواہ بنا جانا

— الرِّقِّ والسِّقَاءِ: بئسنا — الرَّجُلُ: موٹاپے کی وجہ سے پسینہ آنا، کہا جاتا ہے ”جَاءَ يَبْسُتٌ“ جبکہ کوئی موٹا آدمی آئے اور اس کی کھال پر موٹائی کی وجہ سے کچھ جل کا سا اثر معلوم ہو۔ مَثَّ يَذُه: رومال سے ہاتھ پونچھنا شَارِبُهُ: مویجھ کی چکناہٹ کو ہاتھ سے پونچھنا — الْجُرْحُ: زخم سے پیپ اور مادہ فاسد کو صاف کرنا — الْحَدِيثُ: بات پھیلانا۔ نَبَتْ مَقَاتٌ: ترگھاس۔

مَصَّحَ (ن) مَصَّحَا الشَّيْءُ: بلانا — فَلَانًا: کھلانا — الْبُيُوتُ: کتوں صاف کرنا — بِالْعَطِيَّةِ: بخشش کرنا۔

مَضَدَّ (ن) مَضَدًا بَيْنَ الْجِجَارَةِ: چھپ کر گھات میں بیٹھنا اور دید بانی کرنا — الرَّجُلُ: دید بان مقرر کرنا۔

المَائِدَةُ: فانا، گھسان۔ دید بان۔ مَضَطَّ (ن) مَضَطًّا: ہاتھ سے زمین میں کسی چیز کو گاڑنا۔

مَضَعَتْ (ن) س (ف) مَضَعًا الْمَرْأَةُ: عورت کا بری چال چلنا۔ مَضَعَّ: بچو کا چلنا۔

المَضْعَاءُ: بدبودار بچو۔ مَضَلَّ (ن) مَضُولًا فَلَانًا: مانند ہونا — الْقَنْوُ: ظاہر ہونا۔ غائب ہونا — الرَّجُلُ: زمین سے چھٹنا۔ ابی جگہ سے ہٹنا — التَّمَائِيلُ: مجھے بنانا — فَلَانًا بِفُلَانٍ: مشابہت دینا۔

مَضَلَّ (ن) مَضُولًا بَيْنَ يَدَيْ فُلَانٍ: کسی کے سامنے کھڑا ہونا۔ مَضَلَّ (ك) مَضَالَةً: افضل ہونا۔

مَضَلَّ تَمَيُّلًا الشَّيْءُ لِفُلَانٍ: ہو ہو تصویر بنانا — الْحَدِيثُ وَبِالْحَدِيثِ: بیان کرنا۔ مَضَلَّ بِفُلَانٍ عَذَابَ دِينَا: بِالْقَيْلِ: مثلہ کرنا — الْمَضَالُ: نمونہ بنانا — التَّمَائِيلُ: مجھے بنانا — تَمَثَّلًا وَتَمَثَّلًا: الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: مشابہت دینا۔ مَائِلَةٌ مَمَائِلَةٌ: مشابہت دینا۔ مَائِلَةٌ بِفُلَانٍ:

تفسیر دینا۔

أَمَثَلَةٌ: فَلَانًا وَبِهِ: مانند بنانا — الْحَاكِمُ فَلَانًا: قصاص میں قتل کرنا — الْحَاكِمُ فَلَانًا مِنْ فُلَانٍ: قصاص لینا۔

تَمَثَّلَ الْحَدِيثُ وَبِالْحَدِيثِ: بیان کرنا — الشَّيْءُ: مثال کا تصور کرنا — لَمَ الشَّيْءُ: تصور ہونا — بِالشَّيْءِ: مثال دینا۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا النَّبِيُّ مَثَلٌ يَمَثَلُ بِهِ“ یہ شعر مثال ہے جس کی مثال دی جاتی ہے — مِنْهُ: بدلہ لینا — بَيَّنَّ يَذِبُهُ: سامنے کھڑا ہونا۔ تَمَثَّلَ بِفُلَانٍ: نمونہ بنانا — بِهِ: مشابہ ہونا۔

اِمْتَثَلَ الْمَثَلَ وَبِالْمَثَلِ: بیان کرنا — الْأَمْرُ: فرمائندہاری کرنا — الشَّيْءُ: نمونہ پر بنانا — الظَّرْفَةُ: پے روی کرنا — مِنَ الْقَاتِلِ: قصاص لینا۔

تَمَاقِلَ الشَّيْئَانِ: باہم مشابہ ہونا — الْعَلِيلُ مِنْ عَلَيْهِ: بیمار کا جیسے ہونے کے قریب ہونا۔ الْمِثْلُ: شبیہ۔ نظیر۔ مشابہ۔ جِ أَمْثَالٍ (فد کرو مؤنث واحد تشبیہ جمع سبھی کیلئے آتا ہے) کہا جاتا ہے ”هُوَ وَهِيَ وَهُمَا وَهُمْ وَهِنَّ مِثْلُهُ“ اور مہمہم أَمْثَالُهُمْ بھی بولا جاتا ہے۔ و ”فُلَانٌ مُسْتَرَادٌّ لِمِثْلِهِ“ یعنی اس کے مانند طلب کیا جاتا ہے اور اس پر بھل کیا جاتا ہے اور ایسا ہی ہے ”هُوَ مُسْتَرَادٌّ لِمِثْلِيهَا“

المَثَلُ: مشابہ۔ نظیر۔ لغت ہے مثل میں) صفت۔ بات۔ کہاوت۔ (کہاوت کے الفاظ میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا) عبرت۔ دلیل۔ جِ أَمْثَالٍ: المِثْلَةُ: آفت۔ ناک۔ کان۔ کانا۔ المِثْلَةُ وَالمِثْلَةُ: سزا۔ عذاب۔ المِثْلَةُ: ام ماہیہ کی عبرت ناک سزائیں۔ جِ مَثَلَاتٍ۔

المِثَالُ: مقدار۔ شے۔ قصاص۔ بستر۔ چیز۔ اَمَثِلَةٌ وَمِثْلٌ وَمِثْلٌ: المِثَالَةُ: فضیلت۔ اچھی حالت۔

الأَمْثُولَةُ: شعر جو مثال میں پیش کیا جائے جِ أَمْثَالٍ وَأَمْثُولَاتٍ۔

التَّمَثُّلُ: تصویر۔ مجسمہ۔ جِ تَمَثَّلِ: التَّمَثُّلُ: شبیہ۔ نظیر۔ عمدہ۔ جِ مَثَلٌ: المَائِلُ: فاج۔ مثل۔ جیسے خادِم و خَدَم — مِنَ

الرَّسْمُوم: مٹا ہوا نشان۔ کہا جاتا ہے مِثْلٌ مَائِلٌ۔ المَائِلَةُ: مائیل کا مؤنث۔ چراغ دان۔ ڈیوٹ۔ الأَمْثَلُ: افضل۔ جِ أَمْثَالٍ وَ مِثْلُ: مؤنث مِثْلِي: أَمْثَالِ الْقَوْمِ: قوم کے برگزیدہ لوگ۔ الظَّرْفَةُ: المِثْلِي: اشیہ بالحق طریقہ۔ اور کہا جاتا ہے المَرِيضُ اليَوْمَ مِثْلٌ مَرِيضٌ كِ حَالَتِ آجِ اِجْتَمَعِي —

مَثَمَّتْ مَثَمَّةً وَ مَثَمَاتًا زَقِي السَّمْعِ وَ نَعُوهُ بِنِجَانٍ اَو رِاسِمِ المَثَمَاتِ — الفَيْتَلَةُ: حق کو اچھی طرح سے تر کر دینا — أَمْرُهُمْ: خط لفظ کرنا۔

الشَّيْءُ: بلانا — فَلَانًا: پانی میں غوطہ دینا۔ مِثِينَ (س) مِثَنًا: مٹانہ میں پیشاب نہ رکنا۔ صفت أَمْثَلٌ وَ مِثِينَ: مؤنث مِثَمَاءٌ وَ مِثَنَةٌ: مِثَنٌ (ن) مِثَمًا الرَّجُلُ: مٹانہ پر مارنا۔

مِثِينَ مِثَنًا: مٹانہ کی بیماری والا ہونا۔ صفت مَمَثُونٌ وَ مِثِينَ: المِثَانَةُ: پیشاب جمع ہونے کی جھلی۔ بچہ دانی۔ جِ مِثَانَاتٍ۔

مِصَّحَ (ن) مِصَّحًا الشَّرَابَ اَو الشَّيْءَ وَبِهِ مِنْ فَمِهِ: کھل کرنا۔ اور بطور استعارہ کے کہا جاتا ہے ”هَذَا كَلَامٌ تَمِصُّجُهُ الْأَسْمَاعُ“ یعنی یہ ایسا کلام ہے جس کو کان سننا نہیں سکتے۔

مِصَّحَ الْعَنْبُ: انگور کا پک کر پیٹھا ہونا۔ اَمِصَّحَ الْفُؤَادَ: کٹڑی میں تری ہونا۔

الْفَرْسُ: دوڑنے لگانا — الرَّجُلُ: ملک میں پھرنا۔

اِنْمِصَّحَ: بچکانا۔ المِصَّحُ: مہ۔ ماش کے دانے۔ المِصَّحُ: فاج۔ جس کی بوہا پے کی وجہ سے رال ٹپک رہی ہو۔ جِ مِصَّحًا وَ مِصَّحُوجُ: المِصَّحُ: نمئی۔ شراخ۔

المِصَّحُ: تھوک۔ ماش کے دانے۔ مِصَّحُجُ التَّحْلِي: شہ۔ مِصَّحُجُ الْعَنْبِ: شراب۔ مِصَّحُجُ العُزْبِ: بارش۔ کہا جاتا ہے ”حَبِيْبٌ مِصَّحُجًا“ اس نے حبیب کی روٹی پکائی۔

المِصَّحُجَةُ: تھوک۔ مِصَّحُجَةُ الشَّيْءِ: ٹھوڑ۔ المِصَّحُجُ: بچھوں کا ڈھیلنا ہونا۔ انگوروں کی

<p>مَجْمَع (ن) مَجْمَعًا وَمَجْمَعَةٌ وَمَجْمَعٌ وَتَمَجَّعَ تَمَجُّعًا مَجْمُورِينَ كَمَا تَامُرٌ وَرُدُودٌ يَتَمَجَّعُ كَرْتًا بِعَ شَرْمٌ هُوَ</p>	<p>اِسْتَفْجَدَ - بزرگی طلب کرنا۔ عمدہ صفات میں ممتاز ہونا۔</p>	<p>مَجْتَجًا - بہت کھلی کرنے والا۔ کاتب۔ الفَجُّ - پتھر شمد کے نقطے۔</p>
<p>مَجْمَع (س) وَمَجْمَعٌ (ك) مَجْمَاعَةٌ - تَحُولُ كَرْتًا بِعَ شَرْمٌ هُوَ</p>	<p>المَجْدُ - مہ - عزت - بلندی - بلند زمین - ج اَمَّجَادُ -</p>	<p>المَجْمَعَةُ - مہج کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے "مَا بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ إِلَّا مَجْمَعَةٌ" برتن میں صرف کھلی کے لائق پانی باقی رہا۔</p>
<p>مَجْمَعَةٌ مَجْمَاعَةٌ بِأَمِّ تَحُولُ كَرْتًا</p>	<p>المَجَادُ - فا۔ بزرگی والا۔ اچھے اخلاق والا۔ شَتَّى مَاجِدٌ - بہت چیز۔ مَوْنَتٌ مَاجِدَةٌ - ج مَوَاجِدُ</p>	<p>المَجْمَعُ - شد کی کہیاں۔ مست لوگ۔</p>
<p>مَجْمَعٌ تَمَجُّعًا - مَجْمُورٌ مَلَا هُوَ اَكْلَانًا</p>	<p>الْمَجْدُ - اسم تفضیل - ج اَمَّاجِدُ</p>	<p>مَجْمَع (ف) مَجْمَعًا وَمَجْمَع (س) مَجْمَعًا وَتَمَجَّعَ الزَّجَلُ - تکبر کرنا۔ فخر کرنا۔ مَجْمَعُ الدَّلْوِ فِي الْبَيْتِ - ڈول کو کونئیں میں حرکت دینا۔</p>
<p>مَجْمَعُ الْفَصِيلِ - أَوْنَتٌ كَيْتٌ كَوْبَرْتَنَ سَعِ رُدُودٌ يَتَمَجَّعُ</p>	<p>المَجْمُودِيُّ - چاندی کا ایک سکہ۔ جو سلطان عبدالحمید کی طرف منسوب ہے۔</p>	<p>مَجْمَد (ن) مَجْمَدًا - بزرگوں کا ہونا۔ فَلَانًا - بزرگی میں غالب ہونا۔ الرَّاعِي الْإِبِلِ - چارے سے سیر کرنا۔</p>
<p>تَمَجَّعًا بِأَمِّ تَحُولُ كَرْتًا</p>	<p>مَجْمُور (س) مَجْمُورًا مِنَ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ - پیٹ بھرتا اور سیراب نہ ہونا۔</p>	<p>مَجْمَدَتْ (ن) مَجْمَدًا وَمَجْمَدًا الْإِبِلِ - بہت چارہ والی چراگاہ میں چر کر سیر ہونا۔ صفت مَاجِدَةٌ - ج مَوَاجِدُو مَجْمَدُو مَجْمَدُ -</p>
<p>المَجْمَعُ وَالمَجْمَعُ وَالمَجْمَعَةُ - جَائِلٌ - يَرْتَوِقُ - المَجْمَعُ - تَحُولُ كَرْتًا وَاللَّ</p>	<p>مَجْمُورَاتُ الشَّاةِ - پیٹ میں بچے کے بڑے ہونے کی وجہ سے لاغر اور بوجھل ہونا اور اُٹھ نہ سکتا۔</p>	<p>مَجْمَد (ك) مَجْمَدَةٌ - بزرگوں کا ہونا۔ صفت مَاجِدُو مَجْمِدُ - ج اَمَّاجِدُ</p>
<p>المَجْمَعَةُ وَالمَجْمَعَةُ وَالمَجْمَعَةُ وَالمَجْمَعَةُ تَحُولُ كَرْتًا بِعَ شَرْمٌ هُوَ</p>	<p>مَجْمُورَاتُ الشَّاةِ - پیٹ میں بچے کے بڑے ہونے کی وجہ سے لاغر اور بوجھل ہونا اور اُٹھ نہ سکتا۔</p>	<p>مَجْمَد (ن) مَجْمَدًا وَمَجْمَدًا الْإِبِلِ - بہت چارہ والی چراگاہ میں چر کر سیر ہونا۔ صفت مَاجِدَةٌ - ج مَوَاجِدُو مَجْمَدُو مَجْمَدُ -</p>
<p>المَجْمَعَةُ وَالمَجْمَعَةُ وَالمَجْمَعَةُ وَالمَجْمَعَةُ تَحُولُ كَرْتًا بِعَ شَرْمٌ هُوَ</p>	<p>مَاجِرٌ مَجَارًا وَ مَاجِرَةٌ وَ مَجَارَةٌ فَلَانًا فِي التَّبِيْعِ - زیادہ لینا۔ سود لینا۔</p>	<p>مَجْمَد (ك) مَجْمَدَةٌ - بزرگوں کا ہونا۔ صفت مَاجِدُو مَجْمِدُ - ج اَمَّاجِدُ</p>
<p>المَجْمَعَةُ - مَجْمُورٌ رُدُودٌ مَلَا هُوَ اَكْلَانًا</p>	<p>المَجْمُورُ - مہ۔ اَوْنَتٌ اور بکری کے پیٹ کا بچہ۔ پیٹ کے بچے کا خریدنا۔ بڑا لشکر۔ جوا۔ زیادتی اور سو۔ ہر چیز کا مست۔ عقل۔</p>	<p>مَجْمَد وَأَمَّجَدُ - فَلَانًا - تعظیم کرنا۔ تریف کرنا۔ بزرگی کی طرف نسبت کرنا۔ العَطَاءُ - بہت بخشش کرنا۔ لِفَلَانٍ مِّنْ كَذَا - زیادہ کرنا۔</p>
<p>بِقِيَّةِ - مَجْمَلَّتْ (ن) مَجْمَلًا وَ مَجْمَلًا وَ مَجْمَلَةٌ</p>	<p>المَجْمُورُ - مہ۔ ملک بھگری۔ ملک بھگری کے رہنے والے۔ سونے کے سکہ کی ایک قسم بھگری کے پیٹ میں بچے کی بڑائی۔</p>	<p>مَجْمَد وَأَمَّجَدُ ذَمًا وَمَسِيًّا - اس نے اس کی بہت برائی کی بہت گالی دی "وَقَوْلُوا بِهِمْ فَاَمَّجَدُوهُمْ قُرَى" وہ لوگ ان کے صمان ہوئے اور انہوں نے خوب خاطر تواضع کی۔</p>
<p>مَجْمَلَّتْ (س) مَجْمَلًا وَ مَجْمَلَةٌ يَذُو سَعِ</p>	<p>المَجْمُورُ - مہ۔ اَوْنَتٌ اور بکری کے پیٹ کے بچے کی بڑائی۔</p>	<p>مَجْمَد وَأَمَّجَدُ ذَمًا وَمَسِيًّا - اس نے اس کی بہت برائی کی بہت گالی دی "وَقَوْلُوا بِهِمْ فَاَمَّجَدُوهُمْ قُرَى" وہ لوگ ان کے صمان ہوئے اور انہوں نے خوب خاطر تواضع کی۔</p>
<p>أَبْدُ يَذُو - (عَوَامٌ بَقْبَعَتْ يَذُو) كَتَمَ هِيَ - اَمَّجَلُ الْعَمَلُ يَذُو - أَبْدُ وَالنَّانَا</p>	<p>شَاةٌ مَجْمُورَةٌ - پیٹ میں بچے کے بڑے ہونے کی وجہ سے ڈبلی بکری۔</p>	<p>مَجْمَد وَأَمَّجَدُ ذَمًا وَمَسِيًّا - اس نے اس کی بہت برائی کی بہت گالی دی "وَقَوْلُوا بِهِمْ فَاَمَّجَدُوهُمْ قُرَى" وہ لوگ ان کے صمان ہوئے اور انہوں نے خوب خاطر تواضع کی۔</p>
<p>تَمَجَّعٌ رَأْسُهُ أَلْيَتُحَادٍ وَمَا - خُونٌ يَبِيْبُ سَعِ</p>	<p>الْمَجْمُورُ - بچے کے جسم بڑے پیٹ والا۔</p>	<p>مَجْمَد وَأَمَّجَدُ ذَمًا وَمَسِيًّا - اس نے اس کی بہت برائی کی بہت گالی دی "وَقَوْلُوا بِهِمْ فَاَمَّجَدُوهُمْ قُرَى" وہ لوگ ان کے صمان ہوئے اور انہوں نے خوب خاطر تواضع کی۔</p>
<p>المَجْمَلُ - فا۔ ہاڑکے دامن اور وادی کلبانی۔ المَجْمَلُ - مہ۔ اَبْدُ</p>	<p>المَجْمُورَاتُ - اَوْنَتٌ کے پاؤں باندھنے کی رشتی۔</p>	<p>مَجْمَد وَأَمَّجَدُ ذَمًا وَمَسِيًّا - اس نے اس کی بہت برائی کی بہت گالی دی "وَقَوْلُوا بِهِمْ فَاَمَّجَدُوهُمْ قُرَى" وہ لوگ ان کے صمان ہوئے اور انہوں نے خوب خاطر تواضع کی۔</p>
<p>المَجْمَلَةُ - أَبْدُ ج مَجْمَلٌ وَ مَجْمَلٌ (عَوَامٌ بَقْبَعَةٌ كَتَمَ هِيَ)</p>	<p>المَجْمُورَاتُ - اَوْنَتٌ پرست یا اَقْلَبُ پرست واحد مَجْمُورِيَّةٌ - اور مجوسی کا الملاق کبھی جاوگر اور لطفی پر بھی ہوتا ہے۔</p>	<p>مَجْمَد وَأَمَّجَدُ ذَمًا وَمَسِيًّا - اس نے اس کی بہت برائی کی بہت گالی دی "وَقَوْلُوا بِهِمْ فَاَمَّجَدُوهُمْ قُرَى" وہ لوگ ان کے صمان ہوئے اور انہوں نے خوب خاطر تواضع کی۔</p>
<p>مَجْمَعُ الْكِتَابِ - بے نقطہ اور بے اعراب کے لکھنا۔ لَفِي حَدِيثِهِ - صاف نہ بیان کرنا۔</p>	<p>مَجْمُورِيَّةٌ - اَوْنَتٌ پرست یا اَقْلَبُ پرست واحد مَجْمُورِيَّةٌ - اور مجوسی کا الملاق کبھی جاوگر اور لطفی پر بھی ہوتا ہے۔</p>	<p>مَجْمَد وَأَمَّجَدُ ذَمًا وَمَسِيًّا - اس نے اس کی بہت برائی کی بہت گالی دی "وَقَوْلُوا بِهِمْ فَاَمَّجَدُوهُمْ قُرَى" وہ لوگ ان کے صمان ہوئے اور انہوں نے خوب خاطر تواضع کی۔</p>
<p>المَجْمَعُ - ج - دُمِيْلًا وَحَالًا - بہت اور سونے گوشت والا۔</p>	<p>المَجْمُورِيَّةُ - المَجْمُورِيَّةُ کا مؤنث۔ اَوْنَتٌ پرست یا اَقْلَبُ پرست۔</p>	<p>مَجْمَد وَأَمَّجَدُ ذَمًا وَمَسِيًّا - اس نے اس کی بہت برائی کی بہت گالی دی "وَقَوْلُوا بِهِمْ فَاَمَّجَدُوهُمْ قُرَى" وہ لوگ ان کے صمان ہوئے اور انہوں نے خوب خاطر تواضع کی۔</p>
<p>مَجْمَن (ن) مَجْمَنًا - الشَّيْءُ - مَوْتًا اور سخت ہونا۔ - مَجْمَنًا وَمَجْمَنًا مَجْمَنًا تَحُولُ كَرْتًا اور بے حیا ہونا۔ صفت مَاجِمَنُ ج مَجْمَنَانُ</p>	<p>مَجْمُورِيَّةٌ - المَجْمُورِيَّةُ کا مؤنث۔ اَوْنَتٌ پرست یا اَقْلَبُ پرست۔</p>	<p>مَجْمَد وَأَمَّجَدُ ذَمًا وَمَسِيًّا - اس نے اس کی بہت برائی کی بہت گالی دی "وَقَوْلُوا بِهِمْ فَاَمَّجَدُوهُمْ قُرَى" وہ لوگ ان کے صمان ہوئے اور انہوں نے خوب خاطر تواضع کی۔</p>
<p>تَمَجَّعٌ - بَتَلَفٌ تَحُولُ كَرْتًا - تَحُولُ كَرْتًا وَاللَّ</p>	<p>مَجْمُورِيَّةٌ - المَجْمُورِيَّةُ کا مؤنث۔ اَوْنَتٌ پرست یا اَقْلَبُ پرست۔</p>	<p>مَجْمَد وَأَمَّجَدُ ذَمًا وَمَسِيًّا - اس نے اس کی بہت برائی کی بہت گالی دی "وَقَوْلُوا بِهِمْ فَاَمَّجَدُوهُمْ قُرَى" وہ لوگ ان کے صمان ہوئے اور انہوں نے خوب خاطر تواضع کی۔</p>

کاسا عمل کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَحْشٌ فِي كَلَامِهِ"
اس نے اپنی گفتگو میں محش کر لیا۔

المَحْشَانُ۔ بہت محول کرنے والا۔ بہت کافی کہا
جاتا ہے "مَاءٌ مَحْشَانٌ" کافی اور بہت پانی۔
المَحْشَانُ۔ مفت۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ أَوْ قَعَلَهُ
مَحْشَانًا" اس نے مفت لیا یا کیا "وَهَذَا الشَّيْ
لَكَ مَحْشَانٌ" یہ چیز تمہارے لیے مفت ہے۔
يُورِثُ مَحْشَانًا وَلَا يَبِيعُ۔ مفت تقسیم کیا
جائے بچانے جائے۔

طَرِيقٌ مَحْشٌ لِمَارِئَةٍ۔
المَصَاحِبُ۔ اونٹنی جو باوجود بہت جنتی ہونے
کے حاملہ نہ ہو۔

المَشْحُونُ۔ رہت۔ بڑے ڈول کی چرخی۔
زمانہ۔ ج مَنَاجِحُنْ۔
مَحْ (ف ن) مَحَا و مَحْحَا و مَحْوُحَا و
مُحْوَحَةٌ و مَحَّ التَّوْبُ: کپڑے کا پرانا ہونا۔
الْأَثَرُ: نشان کا ٹھکانا۔ الدَّارُ: گھر کا بے نشان
ہونا۔

المَحْ و المَحَا۔ پراگیا کپڑا۔
المَح۔ خالص (۔ والمُحَّة) انڈے کی
زردی۔

المَحَا۔ بھوک۔
الْمَحَّ۔ مونا۔
المَحْحَا۔ بڑا جمونا۔ صرف باتوں سے خوش
کرنے والا۔

مَحَّتْ (ک) مَحَاةَ التَّوْبِ: دن کا گرم ہونا۔
مَحَّتْ (ف) مَحْحَا فُلَانًا: غضبناک کرنا۔
المَحَّتْ۔ گرم دن۔ ہرگز میں کا سخت۔ عکسند۔
تیز خاطر۔ خالص۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَرَبِيٌّ مَحَّتٌ
بَحَّتْ" وہ خالص عربی ہے ج مَحْتَاءٌ و
مُحْتُونَ۔

مَحْحَجٌ (ف) مَحْحَا۔ الرَّجُلُ: تیز چلنا۔
العُرْدُ أَوْ اللَّحْمُ: کڈڑی یا گوشت چھیلنا۔
اللَّبْنُ: دودھ بلونا۔ الجِلْدُ: کھال کو نرم
کرنے کے لیے ملنا۔ الدَّلْوُ: کنوئیں میں ڈول
کو بلانا۔ شَيْئًا عَنِ شَيْءٍ: پونجھنا۔ الرَّيْحُ
الْأَرْضُ: غبار اڑانے جانا۔ العَجَارِيَّةُ: جماع
کرنا۔

مَحْحَجٌ (س) مَحْحَا الرَّجُلُ: جھوٹ بولنا۔
مَاحِحَةٌ مَحْحَا و مَاحِحَةٌ: ٹال مٹول کرنا۔
المَحْحَا۔ بڑا جھوٹا۔

المَحْحَارَةُ: حور کو دیکھو۔
مَحْحَزٌ (ف) مَحْحَا أَوْ مَحْحَا: الرَّجُلُ: سینہ پر
مکھارنا۔ العَجَارِيَّةُ: جماع کرنا۔

مَحْحَسٌ (ف) مَحْحَسَا الجِلْدُ: نرم کرنے کیلئے
کھال کو ملنا اور دباغت کرنا۔
الْمَحْحَسُ: ماہر دباغت۔

مَحْحَشٌ (ف) مَحْحَسَا الجِلْدُ: گوشت سے
کھال جدا کرنا۔ الطَّعَامُ: بہت کھانا۔
السَّبِيلُ مَاحِزٌ عَلَيْهِ: بہا لے جانا۔ العَجَارِيَّةُ:

جماع کرنا۔ مَحْحَسَةٌ: اوجھہ یا السَّبِيلُ: چہرہ پر
تلوار مار کر کھال چھیل دینا۔ (وَمَحْحَسٌ) الحُرُّ
أَوْ التَّائِزُ الجِلْدُ: کھال کو جلانا۔

إِمْتَحَشَ: جلنا۔ فُلَانٌ غَضَبْنَا: غصہ سے
بھڑک اٹھنا۔ الْقَمَرُ: چاند کا غائب ہونا۔ هُ
التَّائِرُ: آگ کا جلانا۔

المَحْحَاشُ: گھر کا سامان۔
المَحْحَاشُ: مختلف قبائل کے لوگ جو عمد و
میان کرنے کے لیے آگ کے گرد جمع ہوں۔

المَحْحَاشُ: جلا ہوا۔
سَنَةٌ مَحْحُوشٌ و مُمْنِحَشَةٌ: خشک سال جو ہرگز
کو جلاوے۔

مَحْحَصٌ (ف) مَحْحَصَا الطَّنْبِي فِي عَدْوِهِ:
ہرن کا تیز دوڑنا۔ المَذْبُوحُ بِرِجْلِهِ: تڑپنا
۔ فُلَانٌ الْأَرْضُ: چل کر دینا۔ فُلَانٌ مِنْ
فُلَانٍ بَمَآئِنَا۔ النِّزْقُ: بجلی کا چلنا۔ اللُّهُ
مَآبِكُ: زائل کرنا۔ الشَّيْءُ: ہر عیب سے
پاک صاف کر دینا۔ الذَّهَبُ بِالنَّارِ: بھلا کر
کھوٹ سے جدا کرنا۔ السِّنَانُ: بھالے کو مچھل
کرنا۔ العَجَلُ: رشتی مضبوط بنانا۔

مَحْحَصٌ الشَّيْءُ: گھٹانا۔ کہا جاتا ہے "مَحْحَصُ
اللَّهِ عَنِ فُلَانٍ ذُنُوبَهُ" اللہ تعالیٰ فلاں کو گناہوں
سے پاک صاف کر دے۔ اللَّحْمُ: گوشت کو
بچنے سے صاف کرنا۔ وَمَحْحَصَةٌ عَنَهُ: دور کرنا۔
صَافٌ كَرْنَا مَحْحَصُ الرَّجُلُ: آزمائش کرنا۔
أَمْحَصُ مِنَ الْمَرْصِي: تندرست ہونا۔

أَمْحَصَتِ الشَّفْشُ: گسن سے ٹکنا اور صاف
ہونا۔ أَمْحَصَهُ عَنَهُ: دور کرنا۔

تَمَحَّصَ الطَّلَامُ: تاریکی چھٹ جانا۔
إِنْمَحَّصَ التَّوْرَمُ: ورم کا گھٹ جانا۔

إِنْمَحَّصَتِ الشَّفْشُ: آفتاب کا روشن ہونا
۔ فُلَانٌ مِنْ تَيْدِهِ: نکل بھاگنا۔
إِنْمَحَّصَ الطَّنْبِي فِي عَدْوِهِ: ہرن کا
چھلا ٹھیکس مارنا۔

المَحْحَصُ مِنَ العَجَالِ أَوْ الْأَوْتَارِ: نرم رشتی
یا تانت۔

المَحْحَصُ وَالْمَحْحَصُ وَالْمَحْحَصُ
وَالْمَحْحُوسُ مِنَ العَجَلِ: مطبوع و قوی
گھوڑا۔ المَحْحِصُ وَالْمَحْحَصُ مِنَ الْأَيْبَةِ:
معیق شدہ بھالے۔

المَحْحَاصُ: اسم مبالغہ۔ بَوَقِي مَحْحَاصُ: چپکنے
والی بجلی۔

الْمَحْحَصُ: جھوٹے بچے سب کا نذر رخنے والا۔
مَحْحَصٌ (ک) مَحْحُوصَةٌ نَسَبُ الرَّجُلِ و
مَحْحَصُ الرَّجُلِ فِي نَسَبِهِ: خالص نسب ہونا۔

مَحْحَصٌ (س) مَحْحَصًا و إِمْتَحَصَ: خالص
دودھ پینا۔

مَحْحَصٌ (ف) مَحْحَصًا فُلَانًا التَّوْدُ أَوْ
التَّضْحُ: خالص دوستی یا خیر خواہی کرنا۔
الرَّجُلُ: خالص دودھ پلانا۔

أَمْحَصَ فُلَانًا التَّوْدَ أَوْ العَدْلِيَّةَ: خالص
دوستی کرنا۔ راست گفتاری کرنا۔ لَهُ التَّضْحُ:
خالص خیر خواہی کرنا۔

مَاحِصَةُ التَّوْدِ: خالص دوستی کرنا۔
إِمْتَحَصَ الرَّجُلُ: خالص دودھ پینا۔
إِسْتَمْحَصَ: خالص دودھ اٹکنا۔

المَحْحَصُ: مہ۔ مِنَ اللَّبْنِ وَنَحْوِهِ: خالص۔
ج مَحْحَاصُ: کہا جاتا ہے "عَرَبِيٌّ مَحْحَصٌ" و
"عَرَبِيٌّ مَحْحَصًا" یعنی خالص نسب عربی۔ مصدر
ہونے کی وجہ سے واحد تشبیہ جمع مذکر مؤنث
سب کیلئے آتا ہے اور تانیف و تشبیہ جمع بھی جائز
ہے۔

المَحْحَصُ وَالْمَحْحَاصُ: خالص دودھ کا
خواہش مند۔ اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَحْحَاصٌ"

خالص دودھ والا۔ جیسے لبن سے لاین یعنی دودھ والا۔

الْمَخْضُوعَةُ - خالص خیر خواہی۔

الْمَخْضُوعُ - خالص۔ مؤنث مَفْخُوعَةٌ۔ کہا جاتا ہے فِضَّةٌ مَفْخُوعَةٌ خالص چاندی۔

مَخْطٌ (ف) مَخْطَاوٌ مَخْطُ الْوَتْرِ: درست و ہموار کرنے کیلئے تانت پر انگلی پھیرنا۔ الشَّهْمُ: تیر چلانا۔

إِمْتَحَنَ التَّبَعِيَّةَ: اونٹ کا دوڑنا۔ الشَّيْفُ: کھوار سوسنا۔ الرُّمْحُ: نیزہ کھینچنا۔ غَاثٌ مَاجِحٌ: کم بارش کا سال۔

مَحَقٌّ (ف) مَحَقُّ الشَّيْءِ: باطل کرنا۔ مَنَانُ: اللہ الشَّيْءِ: گھٹانا بے برکت کرنا۔ فَلَانًا: ہلاک کرنا۔ الْحَرُّ الشَّيْءِ: جلانا۔

مُحِقُّ الرُّجُلِ: موت کے قریب ہونا۔ مَحَقُّ الشَّيْءِ: باطل کرنا۔ مَنَانُ: اَمْحَقُّ الْمَالِ: ہلاک ہونا۔ الرُّجُلُ: مال میں بے برکتی والا ہونا۔ الْقَمَرُ: مہینہ کی آخری رات یا آخری تین راتوں میں ہونا۔

تَمَحَّقٌ وِإِنْمَحَقٌ وِإِمْحَقٌ وِإِمْتَحَقٌ: مضمحل ہونا۔ باطل ہونا۔ مَنَانٌ وِإِمْتَحَقُّ الْحَرُّ الشَّيْءِ: جلانا۔ التَّبَاتُ: شدت گرمی سے خشک ہونا اور جلنا۔ الرُّجُلُ: موت کے قریب ہونا۔ الشَّيْءُ: بے برکت ہونا۔ وِإِنْمَحَقُّ الْهَيْلَالُ: چاند آخری مہینہ میں دکھائی نہ دینا۔

الْمُحَقُّ - مہ - کھجور کے قریب قریب لگے ہوئے پودے۔

الْمَحَقَّةُ - ہلاکت۔

المَحَاقُ وِالمَحَاقُ وِالمَحَاقُ - مہینہ کی آخری رات یا آخری تین راتیں۔

سِنَانٌ مَحِيقٌ - باریک تیز ہمالا۔ المَاجِقُ - فا۔ ماحق الضیف: سخت گرمی یومٌ مَاجِقٌ: سخت گرم دن۔

الْأَمْحَقُ: بے برکت۔

المَصْحَفَةُ: باعث بے برکتی۔ مَحَكٌ (ف) مَخْكَاوٌ مَحَكٌ (س) مَحَكَا وِأَمْحَكٌ وِتَمَحَكُ الرُّجُلِ: گفتگو میں جھگڑا کرنا۔ ہماؤ کرنے میں جھگڑنا۔ صفت مَحَكٌ وِ

مَاجِحٌ وِمَخْكَانٌ۔

أَمْحَكُ الْخُضُوعُ فَلَانًا: غھبناک کرنا۔

مَاحَكٌ مُمَاحَكَةٌ فَلَانًا: جھگڑا کرنا۔

تَمَاحَكُ الْخُضُوعَانِ: باہم جھگڑا کرنا۔

الْمُتَمَحِّجُ: بد اخلاق، جھگڑالو۔

مَجَلٌ (س) وِمَجَلٌ (ف) مَخْلَاوٌ وِمَخُولٌ وِمَجَلٌ (ك) مَخَالَةٌ الْمَكَانُ: قحط زدہ ہونا۔ صفت مَاجِلٌ۔

مَجَلٌ (ف) وِ مَجَلٌ (س) وِ مَجَلٌ (ك) مَخْلَاوٌ وِمَخَالًا بِدَالِي الْأَمِيرِ: پھل خوری کرنا۔ صفت مَاجِلٌ وِ مَجُولٌ وِ مَجَالٌ۔ مَجَلٌ بِضَاحِيَةٍ: بہتان رکھنا۔

مَجَلٌ فَلَانًا: مضبوط کرنا۔ الشَّيْءِ: لہبا کرنا۔ مَاحَلُهُ وِمَخَالًا وِ مُمَاحَلَةٌ: مکر کرنا۔ قوت معلوم کرنے کیلئے باہم زور آزمائی کرنا۔ رُشْمِيٌّ کرنا۔ ہٹانا۔ جھگڑا کرنا۔

أَمْحَلُ الْمَكَانِ: قحط زدہ ہونا۔ صفت مُمَجِلٌ وِالْأَرْضُ مُمَجِلٌ وِمُمَجَلَةٌ: قحط زدہ زمین۔ الْمَطْرُ: بارش کرنا۔ الْقَوْمُ: قحط زدہ ہونا۔

صفت مُمَجِلُونَ۔ اللہ الْأَرْضُ: قحط زدہ کرنا۔ تَمَجَّلَ الشَّيْءُ وَلَهُ: جلیر کرنا۔ لِفُلَانٍ حَقَّةٌ حق حاصل کرنے کی تدبیر کرنا۔ الذَّرَاهِمُ: پرکھنا۔

تَمَاحَلُ الْقَوْمِ: باہم کید و مکر کرنا۔ تَمَاحَلَتِ بِهِمُ الذَّرَاهِمُ: دور ہونا۔

المَجَلُ - فریب - مکر - غبار - شدت - قحط - بارش کا نہ ہونا اور زمین کا خشک ہونا۔ سخت بھوک - ج - مَخُولٌ وِأَمْحَالٌ: کہا جاتا ہے رَجُلٌ مَجَلٌ: غیر مفید مرد۔

المَاجِلُ - فا۔ جھگڑالو۔ کہا جاتا ہے "زَائِنَةٌ مَاجِلًا" میں نے اس کو متغیر اللون دیکھا۔ کہا جاتا ہے "أَرْضٌ مَاجِلٌ وِمَجَلٌ وِمَخْلَةٌ وِمَخُولٌ وِ مَخُولَةٌ" قحط زدہ زمین۔ اور جمع کے لیے أَرْضُونَ مَجَلٌ وِ مَخُولٌ۔

المَجَالُ - بڑی چرخ - ایک قسم کا زور۔

المَجَالُ - کید - مکر - جھگڑا - عذاب - شدت و قوت - ہلاک ہونا۔ ہلاک کرنا۔ جیلوں سے کسی مقصد کو طلب کرنا۔ تدبیر - دشمنی۔

المَخَالَةُ - بڑی چرخ - اونٹ وغیرہ کی ریزہ کی بڑی کا ایک مہرہ - کھڑی جس پر کھڑے ہو کر کھل کریں - ج - مَجَالٌ اور مَجَالٌ کی جمع مَجَلٌ - اور کہا جاتا ہے "لَا مَخَالَةَ" یعنی ضرور لہدی۔

المَجَلُ - وہ شخص جو دھکارا جائے یہاں تک کہ تھک جائے۔ اور کہا جاتا ہے "ذَجَلٌ مَجَلٌ" یعنی حیلہ گر - مکار۔

المَجَالُ - مکار - وغاباز - شیطان۔ أَرْضٌ مُمَجِلٌ وِمُمَجَلَةٌ: قحط زدہ زمین۔

المُمَجَّاجُ - بہت لہبا ترنگا مرد یا اونٹ۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مُمَجَّاجٌ": بہت لہبا ترنگا مرد۔ "وَرَأَيْتُهُ مُمَجَّاجًا" یعنی میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے بدن کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ فَلَاةٌ مُمَجَّاجِلَةٌ: دو کنارے والا میدان۔ فِتْنَةٌ مُمَجَّاجِلَةٌ: ایسا فتنہ جو ختم ہونے میں نہ آئے۔

أَرْضٌ مُمَجَّاجِلٌ: قحط زدہ زمین۔

المَمَجَّلَةُ - دودھ کا شیرازہ۔ مَحَقٌّ (ف) مَحَقْنَا فَلَانًا: آزمانا۔ هُ عَشْرِينَ سَوَاطِلًا: کوڑے مارنا۔ الْفِضَّةُ: چاندی کو تاؤ دے کر صاف کرنا۔ اسم المَحْمَقَةُ ہے۔

التَّوْبُ: پکڑے کو پہن کر پرانا کرنا۔ فَلَانًا شَيْئًا: دینا۔ الْبِشْرُ: کونوں کی صفائی کرنا۔ الثَّقَاةُ: اونٹنی کو چلا کر تھکانا۔ الْحَارِيَّةُ: جماع کرنا۔ وَصَحَنٌ (الْأَوَيْمُ: چمڑے کو نرم کرنا۔

إِمْتَحَنَ الشَّيْءُ: آزمائش کرنا۔ الْقَوْلُ: غور کرنا۔ سَوَّجْنَا: الْفِضَّةُ: چاندی کو تاؤ دے کر صاف کرنا۔

المَمْحَنُ - مہ - ہر چیز کا نرم - تمام دن چلنے اور کسی کام سے تھکن۔ کہا جاتا ہے "كَانَ فِي مَمْحَنٍ" وہ مشقت میں تھا۔ المَمْحَنُ: عطیہ۔

المَمْحَنَةُ: آزمائش - ج - مَمْحَنٌ: مَخَانِمُحُوٌّ وِیَمْحِي مَخُوًّا وِمَحَى الشَّيْءُ: مٹانا۔ صفت مَفْعُولٌ - مَمْحِيٌّ وِ مَمْحُوٌّ: کہا جاتا ہے "صَحَّتِ الزُّبْحُ السَّحَابِ وَالصَّبْحُ اللَّيْلُ" ہوانے بادل کو پراگندہ کر دیا اور صبح نے رات کو زائل کر دیا۔

مَحَا يَمْحُو وَيَمْحَى مَحْوًا وَمَحْيًا وَ
إِمْتَحَى الشَّيْءُ: مَثَلُ إِمْتَحَى إِمْحَى فِي
ضَعِيفٍ لَعْنَةً (ضعیف لغت ہے)

تَمْحَى تَمْحِيًّا مِنَ الْقَوْمِ: معانی کی
درخواست کرتا۔

المَحْوُ: مہ۔ چاند کا سیاہ داغ۔

المَحْوَةُ: محاسم مرہ۔ شرم و عار۔ بارش اس
لیے کہ زمین کی خشکی کو دور کر دیتی ہے۔ کہا جاتا
ہے "صَابَتِ الْأَرْضُ مَحْوَةً" زمین پر بارش
ہوئی۔ اور کہا جاتا ہے "هَبَّتْ مَحْوَةً" بغیر لام
کے اور ضم کے ساتھ۔ یعنی باؤ شمالی چلی۔

المِحْفَاةُ: میل صاف کرنے کا چھتھرا۔

مَحَاةٌ يَفْحَاةٌ وَيَمْحِيهِ مَحْيًا: مَثَلًا لَعْنَةً
ہے مَحَاوِ اَوْ مِي (م)

مَمْحَجٌ (ف) مَمْحَجًا وَتَمْحِجٌ وَتَمْحِجٌ
الدَّلْوُ وَالِدَّلْوُ: بھرنے کیلئے ڈول ہلانا۔ مَمْحِجٌ
الجَارِيَةُ: جماع کرنا۔

تَمْحِجُ الْمَاءَ: حرکت دینا۔

مَمْحَجٌ وَتَمْحِجٌ وَتَمْحِجٌ: بڑی سے
گودا نکالنا۔

أَمْحَ الْعَظْمُ: گورے والی ہونا۔ أَمْحَتِ
الشَّاةُ مَوِيًّا هَوِيًّا — الْفُوْدُ: لکڑی کا تر ہونا
— الزَّرْعُ: بڑی مغز ہونا۔

الْمَمْحُ: بڑی کا گودا۔ بھیجا۔ آنکھ کی چڑلی۔
خالص۔ ج مَمْحَاخٌ وَ مَمْحِجَةٌ: کہا جاتا ہے "لَا
أَرَى لِأَمْرِكِ مَمْحَا" میں تمہارے معاملہ میں
کوئی خیر نہیں دیکھتا ہوں۔ وَالْمَمْحَةُ: گورے کا
کلرا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا لَأَمْحِ مَمْحُ الْقَوْمِ وَ مَمْحَةٌ
الْقَوْمِ" یعنی یہ لوگ قوم کے افضل ہیں۔

الْمَمْحُ: نرم۔
المَمْحَاخَةُ: بڑی کا گودا جو پوسے سے منہ میں
آئے۔

الْمَمْحِيخُ: گورے والی بڑی۔ مَمْحَاةٌ مَمْحِيخَةٌ:
گورے والی یعنی موٹی بکری۔ ج مَمْحَاخِخٌ۔ اِبِلٌ
مَمْحَاخِيخٌ: عمدہ اونٹ۔ کہا جاتا ہے "لَهُ لِسَانٌ
مَمْحِيخٌ" یعنی زبان آور اور قادر الکلام ہے۔

مَمْحَوْتُ (ف) مَمْحَوًّا وَ مَمْحَوْرًا السَّفِيْنَةُ:
آواز کے ساتھ پانی کو چیرنا۔ مَمْحَوْرُ الْأَرْضِ: زمین

کو کھیتی کرنے کے لیے کھودنا۔ اَمْحَى كَهَيْتٍ كَيْلِيَّةٍ
دینا — السَّايِخُ: ہاتھوں سے پانی کو پھاڑنا۔
الذَّنْبُ الشَّاةُ: بھیرے کا بکری کا پیٹ پھاڑنا۔

مَمْحَوْرٌ (ف) مَمْحَوْرًا: عمدہ سامان لے لینا۔
إِمْتَحَرَ وَ تَمْحَرُ وَ اسْتَمْحَرَ الزَّرِيْعُ: ہوا کی
طرف پیٹھ کرنا۔ إِمْتَحَرَ الْعَظْمُ: ہڈی سے گودا

نکالنا — الشَّيْءُ: اختیار کرنا۔
المَمْحَرُ: مہ۔ بنات مَمْحَرٌ: پتلے سفید بادل۔

المَمْحَوْرَةُ: منح کا اسم مرہ۔ منہ کی بدبو —
والمَمْحَوْرَةُ وَ المَمْحَوْرَةُ: پسند کی ہوئی چیز۔
المَمْحَوْرَةُ: مامور کا مسموٹ۔ کشتی۔ ج مَمْحَوْرَجُو۔
المَمْحَوْرُ: بدکاری کی مجلس۔ بدکاری کا اڈا۔

بدکاری کے اڈے کا مسموٹ۔ ج مَمْحَوْرَجُو وَ مَمْحَوْرَجُو۔
مَمْحَوْرٌ مَمْحَوْرَةٌ: جھوٹ گھڑنا۔
مَمْحَوْرٌ: گڑیا۔ ج مَمْحَوْرِيْقٌ۔
تَمْحِصٌ تَمْحِصًا: بہت ہلانا۔

مَمْحِصٌ (ن ف ض) مَمْحِصًا اللَّبَنُ: دودھ
ہلانا۔ کھن نکالنا۔ صفت مفعولی مَمْحِصٌ وَ
مَمْحِصٌ: الشَّيْءُ: بہت ہلانا — الزَّائِي:
خوب غور کرنا — بالدَّلْوِ: بھرنے کیلئے ڈول
ہلانا — البِنْرِ بالدَّلْوِ: کنوئیں میں سے ڈول
سے بہت پانی نکالنا۔

مَمْحِصَتٌ (س) مَمْحِصًا وَ مَمْحِصًا وَ
مَمْحِصَتٌ وَ مَمْحِصَتٌ وَ تَمْحِصَتٌ النَّحَابِلُ:
دروڑہ میں جھلا ہونا۔ صفت مَمْحِصٌ۔ ج مَمْحِصٌ وَ
مَمْحِصٌ۔

أَمْحِصُ اللَّبَنُ: دودھ کے بلوئے جانے کا وقت
قریب ہونا — الزَّرَجُلُ: قریب الولادة
اونٹنیوں کا مالک ہونا۔

إِمْتَحِصُ وَ تَمْحِصُ اللَّبَنُ: کھن نکالنا ہوا
ہونا۔ کھن نکالنے کے برتن میں ہلانا —
الْوَلْدُ: بچے کا پیٹ میں حرکت کرنا۔ تَمْحِصَتُ
السَّمَاءُ: ہرنے کے قریب ہونا۔ تَمْحِصُ الدَّهْرُ
بِالْفَيْئَةِ: قدر ظاہر کرنا۔ اور کہا جاتا ہے
"تَمْحِصَتِ اللَّيْلَةُ عَنِ صَبَاحِ سُوءِ" رات
ختم ہوگئی اور اس کے بعد بڑی صبح آئی۔

إِسْتَمْحِصُ اللَّبَنُ: دیر میں جیسے والا ہونا۔
إِسْتَمْحِصَتِ النَّحَابِلُ يَوْلِيهَا: حاملہ کا دروڑہ

میں جھلا ہونا۔ اَمْحَى كَهَيْتٍ كَيْلِيَّةٍ
دینا — السَّايِخُ: ہاتھوں سے پانی کو پھاڑنا۔
الذَّنْبُ الشَّاةُ: بھیرے کا بکری کا پیٹ پھاڑنا۔

مَمْحَوْرٌ (ف) مَمْحَوْرًا: عمدہ سامان لے لینا۔
إِمْتَحَرَ وَ تَمْحَرُ وَ اسْتَمْحَرَ الزَّرِيْعُ: ہوا کی
طرف پیٹھ کرنا۔ إِمْتَحَرَ الْعَظْمُ: ہڈی سے گودا
نکالنا — الشَّيْءُ: اختیار کرنا۔

المَمْحَرُ: مہ۔ بنات مَمْحَرٌ: پتلے سفید بادل۔
المَمْحَوْرَةُ: منح کا اسم مرہ۔ منہ کی بدبو —
والمَمْحَوْرَةُ وَ المَمْحَوْرَةُ: پسند کی ہوئی چیز۔
المَمْحَوْرَةُ: مامور کا مسموٹ۔ کشتی۔ ج مَمْحَوْرَجُو۔
المَمْحَوْرُ: بدکاری کی مجلس۔ بدکاری کا اڈا۔

بدکاری کے اڈے کا مسموٹ۔ ج مَمْحَوْرَجُو وَ مَمْحَوْرَجُو۔
مَمْحَوْرٌ مَمْحَوْرَةٌ: جھوٹ گھڑنا۔
مَمْحَوْرٌ: گڑیا۔ ج مَمْحَوْرِيْقٌ۔
تَمْحِصٌ تَمْحِصًا: بہت ہلانا۔

میں جھلا ہونا۔

المَمْحَاضُ: دروڑہ۔

الإِمْحَاضُ: دودھ جب تک کھن نکالنے کے
برتن میں رہے۔

المَمْحِصُ وَ المَمْحِصَةُ: شکرہ۔ کھن
نکالنے کا برتن۔ ج مَمْحَاضُ۔

مَمْحَطٌ (ف) مَمْحَطًا الشَّيْءُ: کھینچ کر لبا کرنا۔

الْجَمَلُ بِهِ: تیز دوڑنا — الزَّرَجُلُ فِي
الْأَرْضِ: تیز چلنا — الْوَلْدُ: لڑکے کا باپ
کے مشابہ ہونا۔

— غَرَسَ فَلَانٌ: پودے میں پانی دینا اور
نگہبانی کرنا — الشَّيْفُ: تلوار سونتنا۔
— المَمْحَاطُ: ریٹ صاف کرنا —
الصَّبِيءُ: بچے کی ریٹ صاف کرنا — هُ
بِيَدِهِ: مارنا — مَمْحَطًا وَ مَمْحَطًا الشَّهْمُ:
تیر کا پار ہونا۔ صفت مَمْحِطٌ۔

مَمْحَطُ الْوَلْدُ: بچے کی ناک سے ریٹ صاف
کرنا۔
أَمْحَطُ الشَّهْمُ: تیر کو پار کرنا۔
إِمْتَحَطُ الشَّيْءُ: چھین لینا۔ اچک لینا —
الشَّيْفُ: تلوار سونتنا۔

إِمْتَحَطُ وَ تَمْحِطُ: ریٹ صاف کرنا۔ و
تَمْحِطُ الزَّرَجُلُ: چلنے میں لڑکھڑانا۔
المَمْحِطُ: مہ۔ راکھ۔ چھوٹا کپڑا۔

المَمْحَاطُ: ریٹ۔ ج أَمْحِطَةٌ: مَمْحَاطُ
الشَّيْقَانِ: وہ چیز جو دوپہر کے وقت میں کھڑی
کے جانے کی مانند اوپر سے نیچے آتی ہوئی معلوم
ہوتی ہے اس کو مَمْحَاطُ الشَّمْسِ وَ لَعَابُ
الشَّمْسِ بھی کہتے ہیں۔

المَمْحَاطِيُّ: ریٹ والا۔
المَمْحِطُ: فیاض سردار۔ ج أَمْحَاطُ۔
المَمْحِطَةُ: مَمْحِطُ کا اسم مرہ۔ ایک مرتبہ میں
چلتی ریٹ صاف کی جائے۔

المَمْحَلُ عِنْدَ الْمَوْلِيَيْنِ: لوہے وغیرہ کا آلہ
جس سے بڑے بڑے پھرانٹھے جائیں یا توڑے
جائیں۔ ج أَمْحَالٌ وَ مَمْحُولٌ۔

المَمْحَلُ: بھاگنے والا۔
مَمْحِخَةٌ: گودا نکالنا۔

مَخْن (ن) مَخْنًا. رونا — الْمَيُّو: کوئیں سے پانی نکالنا — الْغُؤْدُ: کڑی چھلینا — الْجَارِيَّةُ: جماع کرنا۔
مَخْن (ن) مَخْنًا وَمَخْنُودًا. لبا ہونا۔ صفت مَخْنٌ وَمَخْنٌ. مَوْتٌ مَخْنَةٌ وَمَخْنَةٌ. المِخْنُ: لبا مرد۔
المِخْنَةُ: المِخْنُ کا مَوْت۔ گھر کا مَن۔
مَخْنِي الرَّجُلِ عَنِ الْأَمْرِ: الگ کر دینا۔ رو کر دینا۔

أَمْخَى إِمْخَاءً وَإَمْخَى إِمْخَاءً وَتَمْخَى وَ إِمْتَخَى إِلَيْهِ: غُذِرَ خَوَابِي كَرْنَا — مِنْهُ: بِيْزَارِ ہونا۔ وَ تَمْخَى الْعَظْمُ: بڑی سے گودا نکالنا۔

مَدَّ (ن) مَدًّا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: پھیلاتا، کھینچتا — اللَّهْ عُمُرُهُ: عمر طویل کرنا — مِنَ الدَّوَاةِ قَلَمٌ مِّنْ رُّوشَانِي لِيَتَا: التَّهْمُورِ او التَّهْمُورِ: دریا یا سمندر کا چڑھنا۔ پانی زیادہ کرنا (لازم و مستحی) کہا جاتا ہے "قَلَمٌ مَّاءٌ وَ كَيْفِيْنَا فَهَذَا تَهْمَارٌ كَيْفِيَّةٌ أَخْزَى" ہمارے کوئیں کا پانی گم ہو گیا تو دوسرے کوئیں نے اس کے پانی کو زیادہ کر دیا "وَ هَذَا الْوَادِي يَمُدُّ لِي وَادِي كَذَا" یہ وادی دوسری وادی کے پانی کو زیادہ کرتی ہے "وَ مَدَّ نَظْرُهُ إِلَيْهِ" اس نے اس کی طرف بلند نگاہ ڈالی۔ مَدَّ الْأَرْضَ: کھاد یا دوسری معنی ڈالنا — الْخَزْفُ: کھینچ کر پڑھنا — الْأَيْلُ: پانی میں جو یا آتیا تِلْ مَا كَرِطَانَا — السِّيْرَاجُ بِالسَّلِيْبِ: چراغ میں تیل ڈالنا — لِي الشَّيْرُ: گزرتا۔ مَدَّوْ أَمَدُ الرَّجُلِ: سملت دینا۔ اعانت کرنا۔ فریاد رسی کرنا — هُ فِي غَيْبِهِ: گمراہی میں زیادتی کرنا — الْجُفْنُ: فوج کی مدد کرنا — التَّهَارُ: دن کا چڑھنا۔ بلند ہونا — الدَّوَاةُ: روشنائی ڈالنا۔ دوات میں روشنائی یا پانی زیادہ کرنا۔ اور ایسا ہی "مَدَّ الْقَلَمُ": قلم میں روشنائی لگانا۔ اَمَدٌ لِي مَشِيْبِهِ: ناز و انداز سے چلنا۔ اَمَدَةُ اللّٰهُ لِي الْخَيْرُ: زیادہ کرنا — أَجَلُهُ: طویل کرنا اور مَوْرُ كَرْنَا — فَلَانًا بِضَالٍ: دینا — الْكُتَابِ: قلم میں ایک ڈوبا دینا — التَّبْوِيْعُ: پانی میں جو یا آتیا تِلْ مَا كَرِطَانَا — وَ اَمَدٌ

الْفُجْرُحُ: زخم میں پیپ ہونا۔ مَدَّ الشَّيْءُ: پھیلاتا۔ مَادَّةٌ مِدَادًا وَ مَادَّةٌ: کھینچنا۔ تال مٹول کرنا۔ مَادَّةُ الْقَوْبِ: ایک دوسرے کے کپڑے کو کھینچنا۔ تَمَادًا الْقَوْبِ: باہم مل کر کھینچنا۔ تَمَدَّدَ وَ اِمْتَدَّ: پھیلنا۔ اِنْتَزَأَ لِيَتَا: تَمَدَّدُوا الشَّيْءَ يَنْتَهِمُ: کھینچنا۔ اِسْتَدْبَهَمُ الشَّيْرُ: طویل ہونا — لِي مَشِيْبِهِ: ناز و انداز سے چلنا — اِلَى الشَّيْءِ: دیکھنا — التَّهَارُ: دن کا آدھا ہونا۔

اِسْتَمَدَّ الْقَوْمُ الْاَمِيْرَ عَلَي الْعُدُوِّ: مدد طلب کرنا — مِنَ الدَّوَاةِ: روشنائی لیتا۔ المَدُّ: مہ۔ سیلاب۔ ج مَدُّوْدٌ: مُنْتَهَى: کہا جاتا ہے "بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَدْرٌ مَدَّ النَّصْرُ" میرے اور اس کے درمیان تنہا ہے نظری مقدار فاصلہ ہے۔ دن کا بلند ہونا۔ کہا جاتا ہے "اَتَيْتُهُ مَدَّ النَّهَارِ وَ مَدَّ الضُّحَى" میں اس کے پاس دن چڑھنے کے وقت آیا۔ مَدَّ النَّهْيُ: دور یا کڑھنا۔ المَدُّ وَ المَدَّةُ: حرف کو کھینچ کر پڑھنے کی علامت۔

المَدَّةُ: ایک پیمانہ جس کی مقدار اہل عراق کے نزدیک دو رطل اور اہل حجاز کے نزدیک ایک اور تہائی رطل۔ المَدَّةُ: مہ کا اسم۔ مَرَّةً: قلم کا ایک مرتبہ دوات میں ڈالنا۔

المُدَّةُ: زمانہ کا حصہ۔ قلیل ہو یا کثیر۔ غایت زمانی یا مکانی۔ کہا جاتا ہے "لِيَهْدِيَهُ الْاَمَّةُ وَ الْاَرْضُ مُدَّةً" قلم کا ایک ڈوبا۔ ج مَدَّدَ: المِدَّةُ: مہ کا اسم۔ نوع۔ پیپ۔

الجِدَّةُ: مدد۔ فریاد رسی۔ کہا جاتا ہے "اَمَدَدْتُهُ بِمَدَدٍ" میں نے اس کو قوت پہنچائی، میں نے اس کی اعانت کی۔

الجِدَانُ وَ الْاِمْدَانُ: کھاری یا بہت سخت کھاری پانی۔ وہ زمین جہاں سے پانی رے۔ الجِدَادُ: مہ۔ روشنائی۔ گوبر یا کھاد۔ چراغ میں جو تیل ڈالا جائے۔ مثال و طریقہ۔ تم کہتے ہو "هَمُّ عَلَي مِدَادٍ وَ اِحِدٍ" وہ ایک مثال پر ہیں "وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ السَّمَاوَاتِ" یعنی آسمان

کی تعداد کے مطابق۔ المَادَّةُ: المَادَّةُ کا مَوْت۔ جس سے کسی چیز کی ترکیب و قوام ہو۔ المَادَّةُ الْاَوَّلِي: وہ جس سے کسی چیز کا حصول بالقوہ ہو۔ ج مَوَادُّ: مَادَات مَوَادُّ اللَّغَةِ: الفاظ لغت: مَوَادُّ الْعِلْمِ: مباحث علم۔

المَادَّةُ: منسوب اِلَى المَادَّةِ: دہریہ جو اس بات کا تامل ہو کہ صرف مادہ ہی کا جو ہے۔ الْاَمِدَّةُ: تانا۔ الْاَمْدُوْدُ: عادت۔

المَدِيْدُ: کھینچا ہوا۔ لبا۔ کہا جاتا ہے "قَدْ مَدِيْدٌ لِبَاقِد" — فَلَانًا مَدِيْدًا الْقَامَةَ" فلاں لے کر کا ہے۔ مَوْتٌ مَدِيْدَةٌ: مَدَّةٌ مَدِيْدَةٌ: طویل مدت۔ ج مَدَّدُ: چارہ۔ پانی میں جو یا آتیا تِلْ مَا كَرِطَانَا: اوزان شعر میں سے ایک وزن۔

المَدِيْدَةُ: توڑی سی مدت (مدت کی تغیر) المَصْدُ: مصدر میسی۔ چیز کے کھینچنے کی جگہ۔ المُنْفَذُ: اوزان شعر میں ایک وزن جس کو بعض متاخرین نے استعمال کیا ہے۔ وزن اس کا قائل قائلان چار مرتبہ ہے۔

المَصْدُوْدُ: مفع۔ مَالٌ مَصْدُوْدٌ: بہت مال۔ المَصْدُوْدُ فِي عِلْمِ الصَّرْفِ: ہر وہ اسم معرب جس کے آخر میں حمزہ ہو اور اس سے پہلے الٹ زائد ہو جیسے صحراء۔

مَدَحَهُ (ف) مَدَحًا وَ مَدَحَهُ: تعریف کرنا۔ مَادَحَهُ: تعریف کرنا۔ مَدَحٌ: غیر واقعی اوصاف پر فخر کرنا۔ خود بخود تعریف کرنا — الرَّجُلُ: تعریف کرنا۔ اِلَى النَّاسِ: اپنی تعریف چاہنا۔ اِمْتَدَحَ فَلَانًا: تعریف کرنا (— وَ اَمْدَحَ) وسیع ہونا۔

تَمَادَحَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ المِدْحَةُ: اسم ہے مَدَحَ سے۔ تعریف ج مَدَحَ: المَدِيْبِحُ: ج مَدَانِحُ: وَ الْاَمْدُوْحَةُ: ج اَمَادِيْبِحُ: تعریف۔

المَمَادِحُ: تعریفیں۔ مَدَحَ (ف) مَدَحًا: بڑا ہونا — فَلَانًا:

تَمَدَّةُ الرَّجُلِ: تعریف کرنا۔ خود بخود تعریف کرنا۔

مَادِيٌّ مُتَمَادَةٌ فَلَانًا: مسلت رہنا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ لَا يُعَادِيهِ أَحَدٌ“ فلاں کا عاقبت تک کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔

أَمَدِيٌّ أَمَدَاءٌ فَلَانًا: مسلت رہنا۔ الرَّجُلُ: بڑی عمر والا ہونا۔ بہت دودھ پینا۔

تَمَادَى: فِي غَيْبِهِ: دیر تک رہنا اور اصرار کرنا۔ فِي الْأَمْرِ: انتہا کو پہنچنا۔ بِتَا الشَّفَرِ: سفر کا طویل ہونا۔

الْمَدَى وَالْمُدَيَّةُ وَالْمَيْدَاءُ: غایت۔ انتہا۔ کہا جاتا ہے ”بَلَغَ مَدَى الْحَيَاةِ وَمُدَيْتَهَا وَمَيْدَاءُهَا“ یعنی زندگی کی انتہا کو پہنچ گیا اور ”دَارِي مَيْدَاءَ دَارِهِ“ میرا گھر اس کے گھر کے مقابل ہے ”مُدَيْتَةُ الْقَوْسِ“ کمان کا وسط۔

الْمُدَيْتَةُ وَالْمُدَيْتَةُ وَالْمُدَيْتَةُ: بڑی جمہری۔ ج۔ مُدَيٌّ وَمُدَيٌّ وَمُدَيَاتٌ وَمُدَيَاتٌ۔

الْمُدَيْتُ: شام و صبح کا ایک پیمانہ جس میں ۱۹ صلح آتے ہیں۔ ج۔ امداء۔

الْمُدَيْتُ: جو بڑے حوض کا ٹکڑا ہو اپنی جو کندہ ہو گیا ہو۔ ج۔ امدیۃ۔

الْأَمْدِيُّ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ أَمْدِيُّ الْقَرْبِ“ فلاں عربوں میں سے بہت زیادہ معزز ہے۔

مُدٌّ: وِجْهُ مُنْفَذٌ۔

مُدَّجٌ (س) مُدَّجًا وَمُدَّجٌ الشَّيْءُ: وسیع ہونا اور پھولنا۔ مُدَّجُ الْإِنَاءِ: برتن کا بھرنا۔ الْبَطِيخُ: خربوزہ کا پختہ ہونا۔

مُدَّجٌ تَمْدِيحًا الشَّيْءُ: وسیع کرنا۔

مُدَّحٌ (س) مُدَّحًا: رگڑ کھانے یا ہمین آنے سے راتوں یا صیوں یا سریوں میں سوزش ہونا۔ صفت۔ امدح۔

تَمْدَحُ الشَّيْءُ: چوسنا۔

الْأَمْدَحُ: بدبو دار۔

الْمُدَّحُ: جمگی انار کے پھول کا شہد۔

تَمْدَحُ الرَّجُلُ: چوسنا۔

الْمُدَّحُ: جمگی انار کے پھول کا شہد۔

مُدْرَتٌ (س) مُدْرًا: الْبَيْضَةُ: انڈے کا کندا

مَدَشٌ (ن) مَدَشًا: مِنَ الْقَلْعَامِ: تھوڑا سا کھانا۔ الْفَلَانُ مِنَ الْعَطَاءِ: کم کرنا۔

مَدَشٌ وَأَمْدَشٌ: رہنا۔

رَجُلٌ مَدَشٌ: الْبَيْدُ: چور۔

الْمَدَشُ: مہم۔ تھوڑا عطیہ۔

الْمَدَشُ: مہم۔ مگر یہ یا بھوک کی وجہ سے چند ماہ یا تھک کے پھول کا ڈھیلنا اور گوشت کی کمی۔

يَاؤُسٌ كِي يَهْمُنُ: عورت کے پستان میں گوشت کی کمی۔ چروکی سرخی اور تخی۔ بیوقوفی اور کہا جاتا ہے ”مَتَابِهْ مَدَشٌ أَوْ مَتَابِهْ مَدَشَةٌ“ اس کو کوئی مرض نہیں۔

الْمَدَشُ: بیوقوف۔

الْمَدْعَةُ: ناریل کا خول جس میں سے مغز نکال لیا گیا ہوا۔

الْمَدْعِيُّ: نسب میں متم۔

الْمَدْعُ: سمندر کی چھوٹی جھیلیاں۔

مَدَقٌ (ن) مَدَقًا: الصَّخْرَةُ: چٹان توڑنا۔

الْمَدْقُ: ریشم۔

تَمَدَّلٌ بِالْمَدْلِيلِ: سر پر رومال لپیٹنا یا عامہ باندھنا۔

الْمَدْلِيلُ: کینہ۔ تہاہ اور دودھ۔

الْمَدْلِيلُ: مرد کو گوشت لا کر خریدنا۔

الْمُدْفُوجُ: بازو بند۔ مَدْمَدٌ: بھاگنا۔

مَدَنٌ (ن) مُدُونًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا (غیر مستقل فعل ہے)۔

مَدَنٌ: الْمَدَائِنُ: شہر آباد کرنا۔

تَمَدَّنَ: شائستہ و مذہب ہونا۔

تَمَدَّنَ: تازہ پروردہ ہونا۔

الْمَدَائِنُ: شہر۔ قصبہ۔ ج۔ مُدُنٌ مُدُنٌ وَمَدَائِنٌ۔

الْمَدَائِنُ: مدینہ منورہ جس کا نام نبی کریم ﷺ کی ہجرت سے پہلے یثرب تھا۔ مَدَائِنَةُ السَّلَامِ: بغداد۔

الْمَدَائِنُ: بغداد کے قریب ایک شہر کا نام جس میں کسریٰ کا محل تھا۔ بڑے ہونے کی وجہ سے حج کا لفظ اطلاق کیا گیا اور نسبت کیلئے مَدَائِنِيٌّ۔

الْمَدَائِنُ: شہر۔

الْمَدَائِنُ: ایک بہت کا نام۔

مَدَهَةٌ (ف) مَدَهًا: تعریف کرنا۔ صفت۔ مادہ۔ ج۔ مَدَهٌ۔

پوری مد کرنا۔ مَادَحَهُ: خیر یا شر میں مد کرنا۔

تَمَدَّحٌ: تکبر کرنا۔ تَمَدَّحَتْ الْإِبِلُ: اونٹ کا پر گوشت اور چربی والا ہونا۔ الشَّاقَّةُ: ادنیٰ کاٹل کھاتی ہوئی چلنا۔

تَمَادَخٌ وَامْتَدَّحٌ عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔ تَمَادَخٌ عَنهُ: سستی رکھ لی کرنا۔

الْمَادِيخُ وَالْمَدْيِيخُ وَالْمَيْدِيخُ: معظّم و معزز۔ الْمَدْوُخُ وَالْمَتَمَادِخُ: جلد باز۔

مَدْرُزٌ (ن) مَدْرُزًا وَمَدْرُزُ الْمَكَانِ: مٹی سے لپٹا ہوا۔ الْحَوْضُ: حوض کے پتھروں کی جمہری کو مٹی سے بند کرنا۔ مَدْرُزٌ: بیت کرنا۔

مَدْرُزٌ (س) مَدْرُزًا: بڑے بیت والا ہونا۔

تَمَدَّرٌ: لپٹا جانا۔ آلودہ ہونا۔

إِشْتَدَّرَ: دُحِيلًا: لیتا۔

الْمَدَّرُ: مہم۔ مٹی کا ڈھیلنا۔ بفریت کا کچھڑ۔ شہر اور دیہات اس لیے کہ اکثر ان کی عمارتیں مٹی کی ہوتی ہیں۔

الْمَدْرَةُ: مٹی کا ایک ڈھیلنا۔ مَدْرَةُ الرَّجُلِ: مرد کا گھر۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ سَبَتَهُ مَدْرَتُهُ: فلاں اپنے شہر کا سردار ہے۔

الْمَدْرِيُّ: شہر کا رہنے والا۔ الْأَمْدَرُ: بڑے بیت والا۔ بہت پائمانہ کرنے والا جو روکنے سے عاجز ہو۔ پھولے ہوئے پہلوؤں والا جس کے دونوں پہلو خاک آلود ہو گئے ہوں۔ گرد آلود۔

الْمَدْرَاءُ: بڑے بیت والی۔ ج۔ بِنْتُ مَدْرَاءَ شہر والی۔

مَكَانٌ مَدِيٌّ وَمَدْوُزٌ لِيْسِيْ هُوَ جَدٌ۔

الْمَدْرَةُ وَالْمَيْدْرَةُ: جہاں سے مٹی کے ڈھیلے لئے جائیں۔

إِبِلٌ مُدْمَرَةٌ: موٹے اونٹ۔

مَدَشٌ (ن) مَدَشًا الْجِلْدُ وَنَحْوُهُ: کمال و غیرہ کو مانا۔

مَدَشَتْ (س) مَدَشًا عَيْثُهُ: بھوک وغیرہ سے چند ہی مانا۔ يَدُهُ: ڈھیلے پتھروں والا اور کم گوشت ہونا۔ صفت۔ امدش۔ مَوْنَشٌ مَدَشَاءٌ ج۔ مَدَشٌ۔

الْمَدْيِ وَالْمَدْيَةَ آتَيْنَهُ - ج مَدَاعُ وَهَذِيئَات -
مَدْر (ن) مَرَا وَمُرْوَا وَمَمْرًا - كَرَرْنَا - جَانَمَرَهُ
وَمَرَّ بِهِ وَمَرَّ عَلَيْهِ - كَرَرْنَا -
مَر (ن) مَرًّا - أَلْبَعِيْرُ - اَوْتَسْتُ كَرْتِي بَانْدَهْنَا -
مَرَّ يُمَرُّ مَرًّا وَمَرَّةً - يَفْلَانُ - صَفْرًا كَاغْلِبُ هُوْنَا -
صَفْتٌ مَمْرُوْرٌ -

مَر (ن) مَرًّا (ن) مَرَّةً - كَرُوْنَا هُوْنَا -
مَرَّ الشَّيْءُ - كَرُوْنَا - زَمِنَ - پَر پَهِيْلَانَا -
أَمَرٌ فَلَانًا بِكَذَا - كَرَارْنَا - الخَبْلُ -
رَتِي جِنَا اُوْر اِسِي سِي هِي "مَا زَانَ فَلَانٌ لِيَمُرُّ
عَلَيْهِ" فَلَانِ اِس كِي سَاثِه پَلِنَا رِهَا تَا كِه اِسِي
يَك دِي "و فَلَانٌ ذُو نَقْصٍ وَ اِمْرَارٌ" - يَمْنِي
فَلَانِ صَاِحِبِ حِلِّ وَ عَقْدِه هِي اَمْرَ الشَّيْءِ - كَرُوْنَا هُوْنَا
— الشَّيْءُ - كَرُوْنَا - اَمْرَةً عَلَي الْجَسْرِ -
اِس نِي اِسِي پَل پَر سِي كَرَارَا — يَدُهُ عَلَي
الشَّيْءِ - هَاثِه پَهِيْرْنَا - اُوْر كَمَا جَاتَا هِي "مَا أَمَرُ
فَلَانٌ" وَ "مَا أَحْلَى" - يَمْنِي فَلَانِ نِي نِي كَرُوِي
بَات كِي نِي مَهْمِي - "وَمَا يُمِرُّ وَمَا يُحْلَى" - يَمْنِي نِي
ضَارِهِي نِي نَاغ -

مَا زَمَرَا وَ مَرَّارَةً عَلَي الْأَرْضِ - كَهْفِيْنَا -
الرَّجُلُ - پَهِيْرَانِي كِي لِي لِيْنَا - سَاثِه كَرَرْنَا -
اِمْتَرَّ بِهِ وَ عَلَيْهِ - كَرَرْنَا -
تَمَارَ الْقَوْمِ - بَعْضُ كَا بَعْضُ كِي سَاثِه كَرَرْنَا -
تَمَارَ مَا يَمْنِيْنَهُمْ - اِيَكِ دُو سَرِي كِي سَاثِه بَعْضُ وَ
دَشْمِي رَهْنَا - كَمَا جَاتَا هِي "هَمَّا يَتَمَارَانُ" - وَ
دُونُوْنِ شَيْءِي لُرِي هِي هِي -
اِسْتَمَرَّ - كَرَرْنَا - جَانَا - اِيَكِ حَاِلَتِ پَر بَاتِي رِهْنَا -
بِهِيْشِي كَرْنَا — يِه عَلَي كَذَا - بَاتِي رَهْنَا - طَابِت
رَهْنَا — الرَّجُلُ - رَسْتِ مَعَالِه هُوْنَا
— الشَّيْءُ - كَرُوْنَا يَانَا — بِالشَّيْءِ - حَمَلِه
كَرْنِي مِيْنِ قُوِي هُوْنَا -

الْمَرَّةُ - مِه - رَتِي - مَهَاؤِي -
الْمَرَّةُ - كَرُوْنَا - اِيَكِ قِسْمِ كِي دُوَا جُو اِيَكِ دَرِخْتِ
سِي نَكْلِ كَرَجْمِ جَاتِي هِي - جِس كَامَرَا كَرُوْنَا هُوْنَا هِي
اُوْر بُو اِچْهِي هُوْتِي هِي - مَرُّ الصَّخْرَايِ -
اِنْدَارَانِ -
الْمَرَّةُ - اِيَكِ بَارِ - ج مَرُّوْ مِرَاؤُوْ مَرُوْؤُوْ وَ مَرُوْؤُوْ
وَ مَرَاتِ -

هُوْنَا -
أَمْدَلَةٌ - نَكْلِ دَلِ كَرْنَا - زَجِ كَرْنَا - أَمْدَلْتُ رِجْلَهُ -
پَاؤُنِ كَا شِنِ هُوْنَا -
إِمْدَلٌ إِمْدَلًا - لَا - سَتِ وَ ذُهِيْلَا هُوْنَا -
إِمْدَلْتُ رِجْلَهُ - پَاؤُنِ كَا شِنِ هُوْنَا -
الْمَدْلُ - مِه - سَتِي ذُهِيْلَا پِنِ - اُوْر كَمَا جَاتَا هِي
"فَلَانٌ مَدْلُ الْبَيْدِ اَوِ النَّفْسِ" فَلَانِ حِي وَ كَرِيْمِ
هِي -

الْمَدْلُ - جَمُوْنِي جِسْمِ وَ اِلَا -
الْمَدِيلُ وَ الْمَدِيْلُ - بِي قَرَارِ - زَجِ هُوْنِي وَ اِلَا -
رَا زُو كَا ظَاِهِرِ كَرِيْنِي وَ اِلَا - مَدِيْلِي كِي جَمْعِ مَدْلِي -
الْمَدِيْلُ وَ الْمَازِلُ - وَ هِي شَخْصِ جِس كَا دَلِ كِي چِيْرِي سِي
بَهْرِ جَاْنِي اُوْر وَ هِي اِس كُو چُوْؤُوْ كَرُوْ سَرِي چِيْرِي كُو اَمِيْدِ
لِگَانِي - كَمَا جَاتَا هِي "هُوَ مَدِيْلٌ بِمَهْجَتِه" - وَ هِي
رُوْحِ كِي سَاوَاتِ كَرْنِي وَ اِلَا -

الْمُدْلَةُ - كَهْجُوْر كِي تَشْمَلِي - چَنَانِ كَا گُرَا هَا -
الْمُدْنَلُ - جُو بَهِيْدِ كِي چَهِيَانِي سِي زَجِ هُو
جَاْنِي - سَتِ بِي حَسِ پَاؤُنِ وَ اِلَا -
مَدْمَدْمَةٌ مَدْمَةٌ الرَّجُلُ - جَمُوْتِ هُوْنَا -
الْمَدْمَادُ - سَتِ چَلَانِي وَ اِلَا - بَاتُوْنِي - مَوْنَتِ
مَدْمَادَةٌ -

مَدْيٌ يَمْدِي مَدْيًا وَ مَدْيٌ الْقَرَسُ - گُوْرِي
كُو چَرْنِي كِي لِي لِي چُوْؤُوْنَا -
مَدْيٌ يَمْدِي وَ اَمْدِي الرَّجُلُ - مَدِي لِكْنَا -
أَمْدِي الْقَرَسُ - گُوْرِي كُو چَرْنِي كِي لِي لِي چُوْؤُوْنَا -
كَمَا جَاتَا هِي "إِمْدُ بَعْتَانِ قَرَسِيكُ" - يَمْنِي اِسِي
گُوْرِي كِي لِگَامِ كُو چُوْؤُوْرِي - اَمْدِي الشَّرَابِ
زِيَادِه پَانِي مَلَانَا -

الْمَدْيُ - پَانِي جُو حُوْضِ كِي نَالِي سِي نَكْلِي - مَدِي جُو
مَلَا حَمِيْتِ يَابُوْرِي لِيْنِي كِي وَ قَدْتِ نَكْلِي -
الْمَدْيُ - حُوْضِ مِيْنِ پَانِي بِنِي كِي جِگِه —
وَ الْمَدْيُ - مَدِي جُو مَلَا حَمِيْتِ يَابُوْرِي لِيْنِي كِي وَ قَدْتِ
نَكْلِي -

الْمَادِيَاتُ - پَانِي بِنِي كِي جِگِه - يَا وَ هِي پِيْدَا اُوْر جُو
پَانِي بِنِي كِي جِگِه هُو -
الْمَادِيَةُ - شَمْدِ - لُوْبِي كَا هَرِ قِسْمِ كَا تَهْيَارِ -
الْمَادِيَةُ - آسَانِي سِي حَلْقِ سِي نِيچِي اُتْرِنِي وَ اِلَا
شَرَابِ - نَرْمِ يَاسْفِيْدِ زَرِه -

هُوْنَا - صَفْتِ مَدْرَةٍ - عَوَامِ "مَدْرَتِ الْبَيْضَةِ"
اُوْر صَفْتِ "مَدْرَتِ" كِيْتِي هِي - مَدْرَتِ
نَفْسِه اُوْر مَعْدَتُه: - جِي مَلَانَا يَا مَعْدِه كَبُرْنَا —
الرَّجُلُ - پَانِي كِي خِرَاْنِه كِي طَرَفِ سَتِ آتَا جَانَا -
مَدْرُ الشَّيْءِ - پَر اَكْنَدِه كَرْنَا - بَكْهِيْرْنَا -
أَمْدَرَتِ الدَّجَاجَةِ الْبَيْضَةِ - كِنْدَا كَرْنَا -
قَمْدَرُ - پَر اَكْنَدِه هُوْنَا - بَكْهِيْرْنَا - تَمْدَرَتِ
الْبَيْضَةِ - اِنْدُرِي كَا كِنْدَا هُوْنَا — الْمِعْدَةُ -
كَبُرْنَا — النَّفْسُ - جِي مَلَانَا - تَمْدَرُ اللَّيْنِ -
دُوْدِه كَا مَطْهِيْرِه مِيْنِ چَهْتِ جَانَا - كَمَا جَاتَا هِي "تَفَرَّقُوا
الْقَوْمَ شَذَرَ مَدْرٍ" - قَوْمِ هَرِ طَرَفِ كُو بَكْهِيْرْنِي -
الْمَدْرُ - كِنْدَا - كَبُرْنَا - اِمْرَاَةٌ مَدْرَةٌ - كِنْدِي
عَوْرَتِ -

الْأَمْدَرُ - پَانِي كِي خِرَاْنِه كِي طَرَفِ سَتِ آتِي
جَاْنِي وَ اِلَا -
الْمَدَارُ مِنَ التَّيْسَاءِ - جَعْلِ خَوْرِنِ -
مَدْرُقُ بِهِ - پَهِيْلَانَا -

مَدْعٌ (ف) مَدْعَا وَ مَدْعَةٌ يَمْنِيْنَا - حَمِ كَمَا هَا -
مَدْعَتِ الْمِيَاهِ - پَهَارِ كِي چُوْتِي پَر سِنَا مَدْعٌ
لِفَلَانِ - خَبْرِ كَا كِي حَمْدِ بِيَانِ كَرْنَا اُوْر كِي چَهِيَانَا
— مَدْعَا الضَّرْعُ - حَمْنِ كَا اُوْر حَا و دُوْدِه هُوْنَا -
تَمْدَعُ الشَّرَابِ - آهَسْتِ آهَسْتِ بِيْنَا -
الْمَدْعَاعُ - جَمُوْنَا - بِي وَ فَا - اِيَكِ جِگِه قَا مِ نِي
رَهْنِي وَ اِلَا - رَا زُو كُو نِي چَهِيَانِي وَ اِلَا -

مَدْقٌ (ن) مَدَقًا اللَّيْنُ - دُوْدِه مِيْنِ پَانِي مَلَانَا
— فَلَانًا وَ لِفَلَانِ - پَانِي مَلَا هُوَا دُوْدِه پَلَانَا
— الْوَدُّ - خَالِصِ رُوْسْتِي نِي كَرْنَا -
إِمْتَدَّقٌ وَ اِمْدَقُ الشَّرَابِ اَوِ اللَّيْنِ - شَرَابِ
يَا دُوْدِه كَلَانِي سِي مَلَانَا -

لَبِنٌ مَدْقٌ وَ مَدِيْقٌ وَ مَدَقُوْقٌ - پَانِي مَلَا هُوَا
دُوْدِه - رَجُلٌ مَدِيْقٌ - لَبُوْلُ وَ رَجْبِيْدِه مَرُو -
الْمَدَقُ - غَيْرِ خَالِصِ رُوْسْتِي كَرْنِي وَ اِلَا -

مَدَلٌ (ن) مَدَلًا وَ مَدَلًا وَ مَدِلٌ (س) مَدَلًا
بِسُوْرِهِ - زَجِ هُو كَرِهِيْدِ كُو ظَاِهِرِ كَرُوْنَا - — وَ
مَدَلْتُ (ك) مَدَالَةٌ - نَفْسُهُ بِالشَّيْءِ - فِيَاضِي
كَرْنَا - جُوَالِ مَرُوِي كَرْنَا - صَفْتِ مَدِيْلِي - كَمَا جَاتَا
هِي "مَدِيْلُ بِيَالِه وَ مَدَلٌ بِنَفْسِه" - اِس نِي مَالِ يَا
نَفْسِ كِي سَاوَاتِ كِي - مَدَلْتُ رِجْلَهُ پَاؤُنِ كَا شِنِ

ہوادالی زمین۔

مَرْت (ض) مَرْتَا الشَّيْءُ: نرم و پھلدار کرنا۔
المَرْت: مہ۔ (— والمَرْتُوت) جنگل جس میں سبزی نہ ہو۔ اور کہا جاتا ہے اَرَضٌ مَرْتٌ: زمین سبزی سے خالی۔ ج المَرَات و مَرُوت و اَمَارَات زَجَلٌ مَرْتٌ: مرد جس کی ابروؤں پر بال نہ ہوں۔ مَرْتُ الحَسَد: وہ شخص جس کے جسم پر بال نہ ہوں غلامٌ مَرْتُ العَدَا: لڑاکا جس کی سس نہ بھگی ہوں۔

أَرْضٌ مَرْتُوْتةٌ: زمین سبزی سے خالی۔
المَرْتُوْتة: المَرْت کا اسم۔ زمین کا سوا کھان۔
مَرْت (ن ض) مَرْتَا الشَّيْءُ: نرم کرنا۔
الصَّيْبُ اصْبَعَهُ: بچے کا انگلی چبانا۔ فَدَى أُهْبَهُ: چوسنا۔ الرَّجُلُ الرَّجُلُ: مارنا۔
الدَّوَاءُ فِي المَاءِ: دوا بھگوانا۔ مَرْتُ التَّمْرِ يَبْدِيهِ فِي المَاءِ: بھگوانا۔ اور ریزہ ریزہ ہونے کے لیے ملانا۔

مَرْت (س) مَرْتَا عَلَيَّ الخِصَامُ: صابر و بردبار ہونا۔ صفت مَرْتٌ و مَرُوتٌ: ج مَضَارَت۔

مَرْتُ القَرْنِد: شید کو ریزہ ریزہ کرنا۔
مَرَج (س) مَرَجَا الأَمْرَ والعَهْدَ والأَمَانَةَ و الدِّينَ: خراب ہونا۔ فاسد ہونا۔ الخَاتَمُ فِي الأَضْبَعِ: انگوٹھی کا انگلی میں ڈھیلنا ہونا۔

مَرَج (ن) مَرَجَا الدَّابَّةَ: چوپایہ کو چراگاہ میں چرنے کیلئے چھوڑنا۔ مَرَجَتِ الدَّابَّةُ: چوپایہ کا چراگاہ میں چرنا۔ کہا جاتا ہے "مَرَجَ لِبْسَانَهُ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ" اس نے لوگوں کی خدمت اور غیبت میں زبان چلائی۔ مَرَجَ الكَيْدَ: جھوٹ میں لوٹ ہونا۔ الشُّطْرَانُ رَجِيحَةٌ نَسَارَ كَرْنَةً: مَرَجَ الأَمْرَ: ضائع کرنا۔ مضبوط نہ کرنا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔

أَمْرَجَ الدَّابَّةَ: چوپایہ کو آزادی سے چرنے دینا۔
الشَّيْءُ: ملانا۔ العَهْدُ: پورا نہ کرنا۔
أَمْرَجَتِ النَّاقَةَ: جبین کو خون بستہ ہوجانے کے بعد گرا دینا۔

المَرُوجُ: مہ۔ چراگاہ۔ ج مَرُوجٌ: بے المَارِجُ: فا۔ بہت بھڑکنے والا شعلہ۔ بے

مَرَأٌ و مَرِيئٌ (س) و مَرُؤٌ (ک) مَرَاءةٌ: الطَّعَامُ: خوشگوار ہونا۔ اور "هَتَانِي و مَرَأِي الطَّعَامُ" اتباع کی بنا پر کہا جاتا ہے اور اگر بغیر بتائی کے کہنا ہو تو مَرَأِي باب افعال سے کہا جائے گا۔
مَرَأُفٌ مَرَاءةٌ: الزَّجَلُ: کھانا۔ (— و امْرَأُ) الطَّعَامُ فَلَانًا: نافع و مفید ہونا۔

مَرِيئٌ (س) مَرَاءةٌ: بول چال یا حیثیت میں عورت کی مانند ہونا۔

مَرُؤٌ (ک) مَرُؤةٌ: صاحب مروت ہونا۔ (مَرَاءةٌ) المَرُوكَانُ: اچھی ہوا کا ہونا۔
مَرَاءةٌ: کسی کو ہینٹا مروتیٹا کرنا۔
تَمَرَأَ: تکلف مروت کرنا۔ صاحب مروت ہونا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَتَمَرَأُ أَيْنَا" فلاں ہمارے عیب یا نقصان کے ذریعہ نجات چاہتا ہے۔

إِسْتَمَرَأَ الطَّعَامُ: خوشگوار سمجھنا۔ خوشگوار پانا۔
المَرَاءةُ مِثْلَةُ المِمْ: مرد۔ ج رَجَالٌ (من غیر لفظہ) اور مَرُؤُونَ بھی سنا گیا ہے۔ اور نسبت کیلئے مَرُؤِيٌّ مَرُؤةٌ و مَرُؤةٌ۔

امْرُؤٌ: مرد۔ ہمزہ وصل کے ساتھ اور راکی حرکت آخری حرکت کے مطابق ہوتی ہے۔ تم کہو گے جَاءَ امْرُؤٌ زَيْتٌ امْرُوتٌ یا مَرِيئٌ اور ہر حالت میں ضمہ و فتح بھی جائز ہے۔ مَرُوتٌ امْرُوتةٌ۔ ج لبسا و لبسوة (من غیر لفظہا) اور ج تصغیر بنائیں گے تو ہمزہ وصل ساتھ ہوجائے گا۔ کہا جائے گا مَرِيئٌ و مَرِيئَةٌ: اور امْرِيئٌ پر الف لام تعریف کا داخل نہیں ہوتا اور امْرُوتةٌ پر داخل ہونا تا رہے۔

المَرُوتةُ: مَرَأَاكُ اسم مَرِيئٌ الطَّعَامُ کالاسم۔ المَرُوتةُ: نخوت۔ کال مراد لگی۔ مصباح میں ہے کہ مَرُوتةٌ ان آداب نفسانیہ کو کہتے ہیں جو انسان کو اخلاقی حسنہ اور آداب جمیلہ پر پراگندہ کریں اور کبھی ہمزہ کو واو سے بدل کر ادغام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مَرُوتةٌ۔

المَرِيئُ: زرخہ۔ ج مَرُؤٌ و امْرُوتةٌ صاحب مروت۔ کہا جاتا ہے "طعامٌ مَرِيئٌ" خوشگوار کھانا۔ و کَلَا مَرِيئٌ بدبھنی نہ کرنے والی گھاس۔ و "هَيْبَتًا مَرِيئًا" کھانے پینے والے کیلئے رعا ہے۔ یعنی رچا بچا کھاؤ۔

المَرِيئَةُ: مَرِيئٌ کاسم مَرِيئَةٍ: اَرْضٌ مَرِيئَةٌ: اچھی

الجِوْتةُ: مہ۔ وہ حالت کہ جس پر کوئی چیز بیٹھ رہے۔ رستی کی لڑی۔ جسم کی توانائی۔ ذہانت۔ ج مَرِيئٌ: ج مَرِيئٌ۔ صفرا یا سودا۔ ج مَرِيئٌ: الجِوْتةُ۔ بنا۔ کہا جاتا ہے "خَيْلٌ شَدِيدَةُ المَرِيئَةِ" مضبوط یعنی ہوئی رستی۔ ذومرہ: لقب حضرت جبرئیل علیہ السلام کا۔

المَرِيئَةُ: المَرُوتةُ کاسم مَرِيئَةٍ: کڑوی۔ ج مَرِيئٌ: بہت بخیل۔ ایک قسم کی سبزی۔ ج مَرُوتٌ و امْرُوتٌ: اَبُو مَرُوتةٌ: کنیت ابلیس علیہ اللعْن۔ کہا جاتا ہے "لَقِي هِنَةَ المَرِيئِينَ" شکر اور بڑے امرک۔
المَرِيئَةُ: چان۔ ج مَرِيئٌ و مَرِيئَات: تلخی۔
المَرِيئَةُ: ایک قسم کا لادانہ جو گیہوں میں ہوتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے۔ نازک اندام لڑکی۔

المَرِيئَةُ: نازک اندام لڑکی۔ ایک قسم کا کالا دانہ جو گیہوں میں ہوتا ہے۔
المَرِيئِيُّ: سالن۔ چٹنی۔ ایک قسم کی دوا۔

المَرِيئِيُّ: ایک درخت ہے جس کو عوام المَرِيئِيُّ کہتے ہیں ادب جب اس کو کھاتا ہے تو اس کے ہونٹ سکر جاتے ہیں اور دانت نکل آتے ہیں۔

المَرِيئِيُّ و المَرِيئَةُ: چنتہ ارادہ۔ (— مَرِيئٌ الحَيْبَالُ: مضبوط یعنی ہوئی رستی۔ امْرُوتٌ مَرِيئٌ: مضبوط معاملہ زَجَلٌ مَرِيئٌ: قوی چنتہ ارادہ والا۔ کہا جاتا ہے "إِسْتَمَرَأَ مَرِيئًا" یعنی ضعف کے بعد قوی ہو گیا۔

"وإِسْتَمَرَأَ مَرِيئًا عَلَيَّ كَذَا" جبکہ کوئی شخص کسی چیز کا عادی ہو جائے۔ المَرِيئَةُ: عزت نفس۔ رستی کی لڑی۔ ج مَرِيئٌ۔

الأَمْرُ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَمْرٌ عَقْدًا مِنْ فُلَانٍ" یعنی فلاں فلاں سے زیادہ عمدہ کا پابند ہے۔ مَرُوتٌ مَرِيئٌ: الأَمْرُ: جو جمع ہونے کی آئیں (اور یہ اسم جمع ہے) الأَمْرَانِ: قنار اور بڑھایا انہیں کے مانند۔ کہا جاتا ہے "لَقِي هِنَةَ الأَمْرَيْنِ" یعنی اس نے اس سے سختی اور تلخی دیکھی۔

المَمْرُ: مہ۔ گزر گاہ۔
المَمْرُ: مہ۔ بہت مضبوط یعنی ہوئی رستی۔
قِرْبَةٌ مَمْرُوْتةٌ: بھری ہوئی مشک۔

دھوکے کا نگارہ۔

المَرَّاج: باتوں میں زیادتی کرنے والا اور
جھوٹ بولنے والا۔

المَرَّجَان: جموٹے موتی۔ واحد مَرَّجَانَةٌ
موتی۔

المَرَّوِج: سفید چھوٹی بڑی جو سیگوں کے
درمیان ہوتی ہے۔ ج مَرَّوِجَةٌ۔ اَمْرُوِجٌ: بڑے
و بے ترتیب معاملہ۔ سَنَمٌ مَرَّوِجٌ: بٹھا ہوا تیز۔
عُضْوٌ مَرَّوِجٌ: شاخوں میں کسی ہوتی شاخ۔

المَرَّوِج: وہ شخص جس کے امور مستحکم نہ
ہوں۔ کہا جاتا ہے "قَاتِلٌ مَرَّوِجٌ": وہ اونٹنی
جس کو چمیں گرا دینے کی عادت ہو گئی ہو۔

مَرَّوِج (س) مَرَّوِجٌ اور مَرَّوِجَانٌ: زُجُجٌ میں
خوش لگتا۔ السَّحَابُ: بادل کا برساتا۔

مَرَّوِجٌ عَيْنُهُ: آنکھ کا خراب ہونا اور پانی برسا
— العَيْنُ بِمَائِهَا وَقَدَّاهَا: آنکھ کا پانی برسا۔

مَرَّوِجٌ الزُّجُلُ: بہت زیادہ خوش ہونا۔ اِزْرَانًا: تاز
سے چلنا۔ صفت مَرَّوِجٌ: ج مَرَّوِجِيٌّ و مَرَّوِجِيٌّ۔

و مَرَّوِجٌ ج مَرَّوِجُونَ: کہا جاتا ہے "لَا تَمْرُجْ
بِعِزِّكَ" پنی آبرو کے در پے نہ ہو۔

مَرَّوِجٌ الجِلْدُ: کمال پر تیل ملنا۔
المَرَّادَةُ المَحْدِيذَةُ: پانی بھردنا تاکہ در بند ہو

جائے۔ البُرُّ: گیہوں صاف کرنا۔ المَهْمُزُ:
بچھرنے کو سدھانا۔ الزُّجُلُ: بڑی جنگ
میں شامل ہونا۔

أَمْرُوخٌ: اِزْرَانِے پر برائی گیت کرنا۔ أَمْرُوخٌ الكَلْبَاءُ
القَرْمِصُ: نشاط میں ڈالنا۔

المِرَّاحُ: نشاط و شمار ملی۔ اِزْرَانِے۔ حرام تاز۔
مَرَّوِجِيٌّ: کلمہ تعجب ہے جو تیر انداز کے لیے کہا

جائے جب کہ تیر نشانہ پر لگے۔ اور اسی کے مانند
ہے "مَرَّوِجِيٌّ"۔

المَرَّوِجِيٌّ: بڑی لڑائی (ماہر رسی سے)
المِرَّاحَةُ: مروح کا اسم نوع۔ جنگ انور کا ڈھیر۔

المَرَّوِجُ: شراب۔ چست و جالاک گھوڑا۔
قَرْمِصٌ مَرَّوِجٌ: ایسے طریقے سے تیر چھیننے والی

کلان۔
المِرَّوِجُ و المِرَّوِجُ: چست۔ خوش و خرم۔

المِرَّوِجُ: بہت آنسوؤں والی آنکھ۔ بہت جلد

اگلے والی زمین۔

المَمْرُوحُ: مغم۔ كَرْمٌ مَمْرُوحٌ: ٹٹی پر پھیلی ہوئی
انگور کی تیل۔

المَمْرُوحَةُ: بہت خوش و خرم۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
بِلُغَابَةٍ وَمَمْرُوحَةٍ" وہ بہت کھلاڑی اور بہت خوش و
خرم ہے۔

مَرَّوِجٌ فَلَانًا و بَدَ: مرحبا کہنا۔ خوش آمدید کہنا
— اللَّهُ فَلَانًا: وسعت و عجبائش میں رکھنا
— ة: وسعت کی طرف بلانا۔

مَرَّوِجٌ (ف) مَرَّوِجٌ: مذاق کرنا۔ جَسَدُهُ
بِالدَّهْنِ: جسم پر تیل ملنا۔

مَرَّوِجٌ (س) مَرَّوِجٌ: طویل شاخ اور
ایسے تپوں والا ہونا۔ صفت مَرَّوِجٌ۔

مَرَّوِجُهُ: تیل ملنا۔ مَرَّوِجٌ و مَرَّوِجٌ العَجِينُ: خمیر
کو پانی ملا کر ڈھیلنا کرنا۔

تَمْرُوحٌ بِالدَّهْنِ: اپنے آپ کو تیل ملنا۔
المَرَّوِجُ: مہ۔ ایک قسم کا درخت جو جلدی آگ
پکڑتا ہے۔

المَرَّوِجُ: مالش کرنے کی چیز۔
المَرَّوِجُ: فَا۔ مَاءٌ مَرَّوِجٌ: بہتا ہوا پانی۔ زُجُلٌ
مَرَّوِجٌ: پانی بہانے والا مرد۔

المَرَّوِجُ و المِرَّوِجُ: بہت تیل لگانے والا
یہوقوف۔ مِّنَ الشَّجَرِ: نرم و چملا۔

المِرَّوِجُ: سجدہ سیارہ میں سے ایک ستارہ کا نام
جس کو ہندی میں منگل اور فارسی میں جلاہ فلک

کہتے ہیں۔
المَرَّوِجَةُ: کچی کھجور۔ ج مَرَّوِجٌ۔

المَرَّوِجُ: دم۔ پونچھ۔
المَرَّوِجُ: سینک کے اندر چھوٹا سینک۔ ج
أَمْرُوخَةُ۔

قَوْرٌ أَمْرُوخٌ: سپید سرخ درغ والا تیل۔
المَرَّوِجُ: چست تیر چلنے والی اونٹنی۔

مَرَّوِجٌ (ن) مَرَّوِجٌ و مَرَّوِجٌ (ک) مَرَّوِجَةٌ و مَرَّوِجَةٌ۔
سرکشی کرنا۔ نافرمانی کرنا۔ ہمسروں سے سبقت لے

جانا۔ مَرَّوِجٌ عَلَيَّ التَّفَاقِي و نَجْوُهُ: نفاق وغیرہ پر
مداومت کرنا۔

مَرَّوِجٌ (ن) مَرَّوِجٌ الشَّيْءُ: نرم کرنا اور صاف کرنا۔
— فَلَانًا: جنگ عزت کرنا۔

—

الدَّابَّةُ: چوپایہ کو زور سے ہانکنا۔ الصَّيْبِيُّ
تَدَى أَوْبَهُ: ہاتھوں سے ملنا۔ الصَّلَاحُ

المَشْفِيَةُ: سرکشی کو چھپنے سے چلانا۔ الشَّيْءُ
فِي الْمَاءِ: پانی میں ملنا۔ العَضْنُ: شمش کی

چھال چھڑانا۔
مَرَّوِجٌ (س) مَرَّوِجٌ و مَرَّوِجَةٌ: الغَلَامُ: لڑکے کا

دیر تک بے داڑھی کے رہنا۔ الزُّجُلُ:
دودھ میں بیگیں ہوتی کھجور کھانے کی مداومت

کرنا۔
مَرَّوِجٌ تَمْرِيذًا و تَمْرَادًا العَضْنُ: شمش سے

پتے بھاڑ دینا۔ البِنَاءُ: عمارت کو ہموار و
چمکانا کرنا۔ لسی کرنا۔ لِلْحَمَامِ تَمْرَادًا:

کاکب میں چھوٹے چھوٹے خانے بنانا۔
تَمْرَادٌ: مدت تک بے داڑھی کے رہنا۔ نافرمانی

کرنا۔ عَلَيَّ النَّاسِ: سرکشی کرنا۔
الزُّجُلُ: ہمسروں سے بڑھ جانا۔ تکبر کرنا۔

سرکشیوں کے پاس آنا۔
المَرَّاد و المَرَّادُ: گردن۔ ج مَرَّوِجِيٌّ۔

المَرَّوِجُ: بیلا کا تازہ چل۔
المَرَّوِجِيُّ: سرکشی چلانے کا چھوٹا۔ ج مَرَّوِجِيٌّ۔

المَرَّادُ: فَا۔ سرکشی۔ بلند۔ کہا جاتا ہے "بِنَاءُ
مَرَّادٌ" بلند عمارت (اور یہ مجاز ہے) ج مَرَّوِجَةٌ و

مَرَّوِجِيٌّ و مَرَّوِجِيٌّ۔
المَرَّوِجِيُّ: سخت سرکشی۔ بڑا شریر۔ ج مَرَّوِجِيٌّ۔

المَرَّوِجِيُّ: دودھ میں بھگوئی ہوئی کھجور۔
الْأَمْرُوِجُ: بے داڑھی کا جوان۔ قَرْمِصٌ أَمْرُوِجٌ:

گھوڑا جس کے کھرے ارد گردیاں نہ ہوں۔
مَوْنَتٌ مَرَّوِجِيٌّ ج مَرَّوِجٌ: کہا جاتا ہے "مَرَّوِجٌ عَلَيَّ

بِخُرْدٍ" کم ہالے والے گھوڑوں پر بے داڑھی موٹھے
کے جوان۔

المَرَّوِجِيُّ: بے چوں کا درخت۔ بخر گیستان۔
بخر زمین۔ ج مَرَّوِجِيٌّ۔

المَرَّوِجِيُّ: کبوتروں کی کاکب میں چھوٹے
چھوٹے خانے۔ ج مَرَّوِجِيٌّ۔

المَرَّوِجِيُّ: سخت سرکشی۔
المَرَّوِجِيُّ قَرْمِصٌ: دونا مروا۔ زعفران۔ زُجُلٌ

مَرَّوِجِيٌّ قَرْمِصٌ: نرم کان والا مرد۔
مَرَّوِجِيٌّ (ن) مَرَّوِجِيٌّ: الخُبْرُ: روٹی کو نرم کرنے

<p>کے لیے ملتا۔ مرزۃ (ن) مرزۃ کاٹنا۔ آہستہ آہستہ چنگی لینا جس میں تکلیف نہ ہو اور جب تکلیف ہوتی تو اسے قرص کہتے ہیں۔ الزجل: عیب لگانا ہاتھ سے مارنا۔ الشئی: کلنا کرنا۔ العیسیٰ لذی اعبہ: بچے کا دودھ پیتے ہوئے پستان پر ہاتھ مارنا۔ منازۃ منازرۃ: مشق کرنا۔ مہارت پیدا کرنا۔ امترز: عجزۃ: عیب لگانا۔ شریکۃ: شریک کے مال کو اپنے مال سے جدا کرنا۔ مین مابہ مرزۃ: بچہ کے لیے لینا۔ المزرقو الموزۃ: حصہ۔ کلنا۔ المزرتان: لوسے اور پراہر حصہ۔ المزرتۃ: ایک شکاری پرندہ جس کو عقیب بھی کہتے ہیں۔ عزض مریز: آہرود جس کی بے عزتی ہوئی ہو۔ المزرتان عند الفرس: رکبیں۔ سردار۔ چوہری ج مزرتۃ: والمزرتۃ عندہم: سرداری۔ المزرتخوش: دو نامروا۔ مرض (ن) مرضا الدواء: پانی میں بھگون اور ملتا۔ العیسیٰ اصنعتہ: بچے کا انگلی کو منہ میں ڈال کے چوسنا۔ یندۃ بالحدیثیل: روال سے پونجھا۔ حیل البکرتۃ: چرخی سے اتر کر ایک جانب ہو جانا۔ مرست (س) مرضا البکرتۃ: رستی کا چرخی اور ادھر ادھر کی لکڑی کے درمیان چبھ جانا۔ کما جاتا ہے "مرست حیالۃ" یعنی اس کے امور گزیر ہو گئے۔ مرض الزجل: کاموں میں بہت مشغولیت والا ہونا۔ مازس مزا سوا ومنازۃ الامز: مشق کرنا۔ سخت کرنا۔ پھنگی کرنا۔ مہارت پیدا کرنا۔ خود کو کسی کام میں لگانا۔ امزس: حیل البکرتۃ: چرخی پر رستی کو دوبارہ چڑھانا۔ تمزس وامترس بالشئی: رگڑنا۔ تمزس بالعین: خوشبو سے لت پت ہونا۔ بالزجل: برائی کے درپے ہونا۔ بدنیہ:</p>	<p>دین سے کھیلنا۔ بالشئی: مارنا۔ بالتواہب والمخضومات حوادث اور بھگونوں کا عادی ہونا۔ امترس الخطنیاء والالسن فی الخضومیۃ: خصوصیت میں اپنی بات پراڑے رہنا۔ تمازس القوم فی الحزب: باہم جگ وپیکار کرنا۔ المزس: مع۔ لگانا رچال۔ المزس: کاموں میں زیادہ مشغولیت رکھنے والا۔ جگ آزمودہ: رستی جو چرخی سے علیحدہ ہو جائے۔ کما جاتا ہے "ہم علی مرض واحد" وہ سب ایک ہی اخلاق کے ہیں۔ ج امزس۔ المزستۃ: رستی۔ ج مرض و ج امزس۔ امزس المزکب: سواری کی رسیاں۔ المزاس والمزاستۃ: طاقت۔ سختی۔ کما جاتا ہے "موسهل المزاس" وہ نرم مزاج ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں صعب المزاس کما جاتا ہے۔ المزاس: مضبوط۔ طاقتور۔ کما جاتا ہے "لیلدۃ مزاستۃ" سخت اور تھکاوینے والی رات۔ المزوس: چرخی جس سے رستی ایک طرف کو گر گئی ہو۔ المزس پانی میں بھگون ہوئی بھجوریں وغیرہ۔ المزاسان والمزاسان: شفاخانہ۔ ج مارستانات (دخیل) مرض (ن) مرضا وجہۃ: چہرہ نوجنا۔ کھرتا۔ منہ سے کاٹنا۔ چنگی لینا۔ ہ: کلام سے ایذا پہنچانا۔ مرض الماء: پانی بہنا۔ امترس الشئی: کھینچنا۔ آپک لینا۔ یعنی بالہ: کمانی کرنا۔ الشئی: جمع کرنا۔ المزس: مع۔ بارش سے صاف شدہ زمین۔ وہ زمین جو ٹھوڑی سی بارش میں بہ نکلے۔ ج مزوس و امزاس۔ المزس: پہاڑ کا پست حصہ۔ الأمزس: بہت شریر۔ مونت مزشاء ج مزش۔ المزشاء: ہر باگل کٹ کھنا جانور۔ مختلف قسم کی گھاسوں والی زمین۔ المزاس: بہت کمزور۔ المزس: ٹھوڑی بارش۔ مرض (ن) مرضا الشدی ونحوہ: پستان کو</p>	<p>الکھیلوں سے دہانا۔ مرض (ن) مرضا الرجل: سبت کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔ تمزس القشور عن الشیور ونحوہ: جو وغیرہ سے چمکانا۔ المزوس: تیز رفتار اونٹنی۔ مرض (س) مرضا مرضا: بیمار ہونا۔ صفت مرض و مریض و مراض۔ مرضۃ: علاج کرنا۔ بیماری کرنا۔ مریض کر دینا۔ مرض فی الامر: کمال ہونا۔ کمزور ہونا۔ مضبوطی سے نہ کرنا۔ البز: گیوں کھیرنا۔ امزس: مریض ہونا۔ اللہ فلانا: مریض بنانا۔ ہ: مریض پانا۔ کما جاتا ہے "انتبت زیدا فامرضۃ" میں زید کے پاس آیا تو میں نے اس کو مریض پایا۔ اجفانۃ: پلگوں کو پست کرنا۔ الزجل: حاجت برآری کے قریب ہونا۔ القوم: مریض چوپائے والے ہوتا۔ تمزس: کام میں کمزور ہونا۔ تمازس: تکلف مریض بنا۔ فی امرہ: کمزور ہونا۔ المزس والمزس: بیماری ج امراض۔ کما جاتا ہے "بہ مرضۃ شدیدۃ" یعنی اسے سخت مرض ہے۔ المزس ج مرضی والمزس ج مرض: بیمار۔ قلب مریض: کمزور دین والا۔ ز ائی مریض: کمزور رائے۔ عین مریضۃ: کمزور آنکھ۔ ریح مریضۃ: سست ہوا۔ لیلدۃ مریضۃ: رات جس میں ستارے دکھائی نہ دیں۔ اڑس مریضۃ: تنگ زمین۔ چھیل زمین۔ بہت قدر فساد جگ و جدال والی زمین۔ شمس مریضۃ: بادل وغیرہ کی وجہ سے اچھی طرح سے روشنی نہ دینے والا آفتاب۔ مریضۃ کی جمع مرض و مرضی۔ المزس: بہت بیماری والا۔ المزوس والمزس: بیمار۔ مرط (ن) مرطا ومرط الشقرا والزیش: بال یا پرتوچنا۔ الشئی: جمع کرنا۔ بسلیجہ: پستان کرنا۔ مرطت المرزۃ:</p>
---	--	---

بَوْلِدَهَا: جنار — مَرْطَا وَمَرْطَا: الرَّجُلُ: جلدی کرنا — فَلَانًا: ٹھکانا دینا۔ مَرْطَ الثَّوْبِ: آستینوں کو چھوٹا کر کے چادر کی مانند بنانا۔

مَرْطَ (س) مَرْطَا: کم بالوں والا ہونا۔
أَمْرَطَ الشَّعْرُ: بال کا نوپنے کے قابل ہونا۔
أَمْرَطَتِ التَّخْلَةُ: درخت خرما سے چکی کھجوریں گرنا — الثَّاقِفَةُ: اونٹنی کا چلنے میں تیز ہونا۔

مَارَظَةٌ مُمَارَظَةٌ: ایک دوسرے کے بال نوچنا۔

تَمَرَطَ وَامْرَطَ وَامْرَطَ الشَّعْرُ: بال گرنا۔
تَمَرَطَ الشَّهْمُ: تیر کا پرے خالی ہونا۔
إِمْرَطَ: الشَّيْءُ: ایک لینا۔

العِرْطُ: ہر بے سلا ہوا کپڑا۔ اون یا ریشم کی چادر۔ عِرْطُوطُ:

الْأَمْرُطُ: کم بال والا۔ بھیڑا جس کے بال نچے ہوئے ہوں۔ چور۔ مَوْنُثُ مَرْطَاءِ جِ مَرْطُ شَجَرَةٍ مَرْطَاءِ: بے پتوں کا درخت۔

سَهْمٌ مَرِيظٌ مَرِظًا وَمَرْطٌ: بے پر کا تیر۔
الْمَرْطُ مِنَ السَّهْمِ: بے پر کا تیر۔ کہا جاتا ہے "سَهْمٌ مَرْطٌ" جِ أَمْرَاطُ مِرَاطُ:

المِرَاظَةُ: جو بال نوچنے یا کٹھکی کرنے میں گرے۔ المَرْطُوطُ: تیز رفتار۔ فَوْسُ مَرْطَلِيٍّ: تیز رفتار گھوڑا۔

الْمَرْطُوطَةُ مِنَ النَّوْقِ: تیز رفتار اونٹنی۔ جِ مَمَارَاطُ: المَرْطُوطِيُّ: طلق کا کوا۔

المَرْطُطَاءُ: ناف یا سینہ اور پیڑوں کے درمیان بغل۔ واڑھی پیچے کے گردا گرد۔
العِرْطَاوَانُ: واڑھی پیچے کے گردا گرد۔

مَرْغٌ (ف) مَرْغَا زَانَةٌ بِالذَّهْنِ: سر پر تیل ملنا — شَعْرَةٌ: بال میں کٹھکی کرنا۔

مَرْغٌ (س) مَرْغَا وَمَرْغٌ (ك) مَرْاعَةٌ الْمَكَانُ: سرسبز ہونا — الرَّجُلُ: خوش حال ہونا مَرْغٌ (س) مَرْغَا — الرَّجُلُ: سبز زار میں پہنچنا۔

أَمْرَعُ الْمَكَانُ: سرسبز ہونا — زَانَةٌ

بِالذَّهْنِ: خوب تیل ملنا — الْقَوْمُ: سرسبز جگہ پانا۔
تَمَرَعٌ: جلدی کرنا۔ گھاس طلب کرنا۔

إِنْمَرَعٌ فِي الْبِلَادِ: جانا۔ سیر کرنا۔
الْمَرْعُ: گھاس۔ جِ أَمْرَعٌ وَأَمْرَاعٌ:

مَكَانٌ مَرْعٌ: سبز زار جگہ۔ رَجُلٌ مَرْعٌ: سبز زار ڈھونڈنے والا مرد۔

المُرْعَةُ وَالْمِرْعَاةُ: چربی۔
المُرْعَةُ وَالْمِرْعَاةُ: ایک پرندہ تیر کے مانند۔ جِ مَرْعٌ وَمِرْعَانٌ:

مَكَانٌ مَرْعٌ: سبز زار جگہ۔ جِ أَمْرَاعٌ وَأَمْرَعٌ كَمَا جَاءَا فِي "فَلَانٌ مَرْيَعُ الْحَنَابِ" فَلَانُ بَسْتِ حَتَّى وَفِيضٍ هُوَ:

الْمُرْعُوعَةُ: سبز زار زمین۔ جِ أَمْرَاعٍ: المِرْعُوعُ: سبز زار۔

مَمَارِيعُ الْأَرْضِ: عمدہ زمینیں (اس کا واحد نہیں)

المِرْعَزِيُّ وَالْمِرْعَزِيُّ وَالْمِرْعَزِيُّ وَالْمِرْعَزَاءُ وَالْمِرْعَزَاءُ: بکری کے بالوں کے نیچے کا رول۔ نِزْمٌ أُونُ:

مَرْغٌ (ف) مَرْغَا الْحَيَوَانُ الْعُشْبُ: چارہ چرنا — فِي الْعُشْبِ: چرے کیلئے ٹھہرنا — التَّبَعِيَّةُ: اونٹ کا جھاگ ڈالنا۔

مَرْغٌ (س) مَرْغَا عِزْضَةٌ: عزت پر درجہ لگنا۔
مَرْغَةٌ تَمْرِيغًا وَتَمْرَاغًا فِي الشَّرَابِ: مٹی میں لوٹانا۔ مَرْغُ الْعِزْضِ: آبرو کو داغ دار کرنا — زَانَةٌ: خوب تیل لگانا۔

مَارَغَهُ: فریب دینا — هُوَ فِي الشَّرَابِ: مٹی میں چپکانا۔

أَمْرَعٌ: سونے میں رال ہنا۔ بَسْتٌ كَمَا سَ كَرْنَا — الْعَجِيذُ: گندھے ہوئے آنے کو پانی بڑھا کر نرم کرنا — عِزْضَةٌ: آبرو کو داغ دار کرنا۔

تَمَرَعٌ: فِي الشَّرَابِ: مٹی میں لوٹنا — هُوَ الْأَمْرُ: تردو کرنا — عَلِيُّ فَلَانٍ: دیر لگانا۔

الْحَيَوَانُ: جانور کا جھاگ نکالنا۔ تَمَرَعَتِ السَّائِمَةُ جَوَابِيهٌ كَادِرٌ نَكَتُ كَسِي جَلْدٌ فِي حِرْمَانِ الرَّجُلِ: برائی سے دور رہنا۔ بدن کو چھکیلا اور نرم کرنا۔ درو کی وجہ سے تمللانا — هُوَ التَّعْيِيمُ: نعمت میں لوٹ پوٹ ہونا۔

الْمَرْغُ: مہ۔ لعاب۔ باغ۔ تیل کی خوب مالش۔
الْمَارِغُ: نا۔ بیوقوف۔

الْمَرْغُ مِنَ الشَّعْرِ: بہت تیل جذب کرنے والے بال۔

الْمَرْغَاةُ وَالْمَرْعَاةُ وَالْمُتَمَرِّغُ: جانور کے لوٹنے کی جگہ۔

المُرْعَةُ: مرغ کا اسم مرہ۔ باغ۔
الأَمْرَعُ: افعال رزیلہ میں آلرہ۔ مَوْنُثُ مَرْغَاةٌ جِ مَرْغُ:

المِرْمُوعَةُ: ایک آنت کا نام جس کو امور بھی کہتے ہیں۔

مَرْقٌ (ن) مَرْوَقًا السَّهْمُ مِنَ الزَّيْمَةِ: تیر کا ٹکڑا کو چھید کے پار ہو جانا — مِنَ الذَّيْنِ: گمراہی یا بدعت کی وجہ سے دین سے نکل جانا۔

مَرْقٌ (ن ض) مَرْقَا الْقِدْرُ: شور یا زیادہ کرنا — الْجِلْدُ: کھال سے اون اکھیرنا — هُوَ بِالرَّمْحِ: نیزہ مارنا — الطَّائِرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔

مَرْقٌ (س) مَرْقَا التَّبِيضَةُ: اٹلے کا گند اہو کر پانی بننا — التَّخْلَةُ: درخت خرما سے زیادتی کی وجہ سے پھلوں کا گر جانا۔

أَمْرَقُ الْقِدْرُ: شور یا زیادہ کرنا — الْجِلْدُ: اون اکھیرنے کے قابل ہونا — التَّخْلَةُ: زیادتی کی وجہ سے پھلوں کا گرنا۔ اسمُ الْمَرْقِ: ہے۔

مَرْقٌ: گانا — الْقِدْرُ: شور یا زیادہ کرنا۔
تَمْرَقُ الشَّعْرُ: بال اکھیرنا۔ مرض وغیرہ کی وجہ سے بال جھڑ جانا — الثَّوْبُ: کپڑے کا عمھفر سے رنگ جانا۔

إِنْمَرَقٌ وَامْرَقُ الشَّهْمُ: چھید کر پار ہونا۔
الشَّعْرُ: بال گرنا۔

إِمْرَقُ الشَّيْءِ: جلدی سے گزر جانا۔
الشَّيْفُ مِنَ غَدِيهِ: گلوار کو میان سے سونٹنا۔

المَرْقُ: مہ۔ دھکی ہوئی اون۔ بدبودار اون یا کھال۔ خوش کے خار۔ جِ أَمْرَاقُ: کہا جاتا ہے

"أَصَابَهُ ذَلِكَ فِي مَرْقِكَ" یعنی یہ مصیبت اس کو تمہاری وجہ سے یا تمہارے جرم کی وجہ سے لاحق ہوئی۔

المِرْقُ: بدبودار اون یا کھال۔

پنڈل سے دبا دیا کر اس کی رفتار کو دکھلا رہا تھا۔
 — فَلَانًا مَيَاةً سَوَاطٍ : کوڑے مارنا۔ مَرِي
 الفرسُ گھوڑے کا تین پاؤں پر کھڑے ہو کر
 چوتھے کو زمین پر چلنا۔
 أَمْرٌ ثَقِيفٌ : اونٹنی کا بست دودھ والی ہوتا۔
 مَازِيٌّ مَازَاةٌ وَمُضَاةٌ : جھگڑا کرنا۔
 تَمَازِيَةٌ : باہم جھگڑا کرنا۔
 اِنْتَمَى فِي الشَّيْءِ : شک کرنا () —
 وَاسْتَفْزَى اللَّبَنَ وَنَحْوَهُ : دودھ دوہنا۔ نکالنا۔
 تَمَرَّتِي تَمَرَّتِيَا بِكَذَا : آراستہ ہونا۔
 الْمُرِيَّةُ وَالْمُرِيَّةُ : جھگڑا۔ کہا جاتا ہے "مَا فِيهِ
 مِرْيَةٌ" یعنی اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ شک
 المِرْيَةُ : دودھ جو اونٹنی کے تھن پر ہاتھ پھیر کر
 دوہا جائے۔ کہا جاتا ہے "اِتَّخَذْتُ مِرْيَةَ الثَّقِيفِ"
 اونٹنی کے تھن پر ہاتھ پھیر کر دوہا ہوا دودھ میں
 نے لیا۔
 المَرِيَّةُ : بست دودھ والی اونٹنی۔ رگ جو دودھ
 سے بھر جاتی ہے۔ ح مَرَاتِيَا : مَرَاتِيَا : جمع مَرَاةٌ
 بمعنی آئینہ اور بجائے ہیئتاً مَرَاتِيَا کے ہیئتاً مَرَاتِيَا
 بھی کہا جاتا ہے۔
 المَرِيَّةُ : بست دودھ والی اونٹنی۔
 المَرِيَّةُ : سفید چمکا چھڑا۔ مَرَاتِيَّةٌ :
 چھوٹی دھاری دار کملی۔ قَطَارٌ نَدَةٌ كَالشَّارِيَّةِ
 المَرَاتِيَّةُ وَالْمَرَاتِيَّةُ : سفید کچنے پھیرے والی
 گائے۔
 أَمْرٌ مُضْمَرٌ : سیدھا معاملہ۔
 مَرَاتِيَا : مَرَاتِيَا : مَرَاتِيَا : فضیلت والا ہونا —
 الشَّيْءُ : بست ہونا۔ صفت مَرَاتِيَا () — مَرَاتِيَا
 مَرَاتِيَا : کھٹ مٹا ہونا۔
 مَرَاتِيَا : مَرَاتِيَا : چوستا۔
 مَازِيٌّ مَازَاةٌ : مَرَاتِيَا : درودور کرنا۔
 مَرَاتِيَا : فضیلت والا سمجھنا — بِكَذَا : فضیلت
 دینا۔
 تَمَازِيَةٌ : مَرَاتِيَا : دور ہونا۔
 تَمَرَّتِيَا : مَرَاتِيَا : چوستا۔ مَرَاتِيَا : کھٹ مٹا
 مَرَاتِيَا : مَرَاتِيَا : مَرَاتِيَا : "هَذَا أَمْرٌ
 مَرَاتِيَا" یعنی سخت کام ہے۔
 الجَزَاءُ : مرتبہ و فضل۔ کثرت۔ اور کہا جاتا ہے

الْأَنْفِ : ناک کے دونوں جانب۔
 المَرِنُ : بچان جس پر باغبان سوتا ہے۔
 المَرِنُ : مَلَامٌ وَنَحْوَهُ : عادت۔ کہا جاتا ہے "هَمُّ
 عَلِيٍّ مَرِنٌ وَاجِدٌ" جب کہ سب اخلاق میں ایک
 جیسے ہوں۔ حال۔ کہا جاتا ہے "مَا زَالَ ذَلِكَ
 مَرِنِي" ہمیشہ میری یہ حالت رہی۔ المَرِنُ : شور و
 جگ۔
 المَرَاتِيَا : ٹھوس و پلک دار نیزے۔ ایک درخت
 ہے جس کے نیزے بنائے جاتے ہیں۔ واحد مَرَاتِيَا :
 المَرَاتِيَا : فانا۔ ناک کا کنارہ یا ناک کا نرم حصہ ج
 مَرَاتِيَا : زَمْعٌ مَرَاتِيَا : ٹھوس پلک دار نیزہ۔
 المَرَاتِيَا : عِنْدَ النَّصَارِيِّ : عیسائیوں کے
 اعتقاد میں ایک مقدس تیل جو بعض رسوم میں
 عیسائیوں کو لگایا جاتا ہے۔
 أَمْرَانِ الدَّرَاةِ : ہاتھ کا پھنجا۔
 مَرَهَتْ (س) مَرَهَاتِيَّةٌ : سرمہ چھوڑنے سے
 آنکھ کا خراب ہونا۔ صفت مَرَهَةٌ وَآمَرَةٌ : رَجُلٌ
 مَرَهَةٌ : الفَوَّادُ : مرد بیمار دل۔ سَخَابٌ آمَرَةٌ : سفید
 بادل جس میں سیاہی بالکل نہ ہو۔
 المَرَهَاءُ : الأَمْرَهُ كَالْمَوْنِثِ : شَاةٌ مَرَهَاءٌ : سفید
 بکری جس میں کوئی اردوان نہ ہو۔ ح مَرَهَةٌ : أَرْضٌ
 مَرَهَاءٌ : کم درخت والی زمین۔
 المَرَهَةُ : سفیدی جس میں کوئی دوسرا رنگ ملا
 ہوا نہ ہو۔ گڑھا جس میں بارش کاپالی جمع ہو۔
 مَرَهَمٌ مَرَهَمَةٌ : الخَرْخَجُ : زخم پر مرہم لگانا۔
 المَرَهَمُ : زخم پر لگانے کی دوا۔ ح مَرَهَمٌ :
 المَرَوُ : ایک تخت قسم کا پتھر جس کو صوان بھی
 کہتے ہیں۔ واحد المَرَوَةُ کہا جاتا ہے "فَقَرَعَ
 الدَّهْرُ مَرَوَةً" یعنی زمانہ نے اس پر بلاناازل کی۔
 المَرَوُ : ایک خوشبودار پودہ۔
 المَرَوَةُ : مکہ معظمہ کی ایک پہاڑی کا نام۔
 مَرِيٌّ مَرِيٌّ : مَرَاتِيَا : دودھ اتارنے کے
 لئے تھن پر ہاتھ پھیرنا — الدَّمُ وَنَحْوَهُ : خُونٌ
 نکالنا — حَقَّةٌ : حق کا انکار کرنا — الرِّبِيحُ :
 السَّخَابُ : ہوا کا بادل سے بارش برساتا —
 الشَّيْءُ : نکالنا — الفَرَسُ : کوڑے وغیرہ سے مار
 کر رفتار ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَرِيٌّ مَرِيٌّ ذَابِتَةٌ
 بِسَاقِهِ" وہ گڑا اس حال میں کہ اپنے جانور کو اپنی

المَرَوَةُ وَالْمَرَوَةُ : شوربا۔
 المَرَوَةُ : اکھیڑی ہوئی اون۔ تھوڑی سی
 اکھیڑی ہوئی گھاس۔
 المَرَاتِيَا : دین سے نکل جانے والا۔ ح مَرَاتِيَا :
 وَمَرَاتِيَا : المَرَاتِيَا : چمید کر کے پار ہونے والا۔
 المَرَاتِيَا : المَرَاتِيَا : کامنٹ۔ خوارج۔
 المَرَاتِيَا : المَرَاتِيَا : عصفور۔ ثَوْبٌ مُتَمَرِّقٌ :
 عصفور سے رنگا ہوا کپڑا۔
 المَرَاتِيَا : نکلنے کی جگہ۔ روشن دان۔
 لَحْمٌ مُتَمَرِّقٌ : بست چمکا گوشت۔ المَرَاتِيَا :
 گویا۔ (گائے والا)
 مَرَمَرٌ : ٹھنکا ہونا — المَاءُ : سطح زمین پر
 پانی بنانا۔
 تَمَرَّتِيَا : ریت کا موج مارنا —
 الجِسْمُ : جسم کا تھلھلانا — عَلِيٌّ أَصْحَابِيهِ :
 امیر ہونا۔
 المَرَمَرُ : سنگ مرمر۔ واحد مَرَمَرَةٌ () — و
 المَرَمَرَاتِيَا : بست رس والا اتار۔ نازک بدن
 تھلھلانے والا۔
 المَرَامِرُ : باطل۔ نازک بدن۔ تھلھلانے والا۔
 المَرَمَرَةُ : بست بارش۔
 المَرَمَرِيَّةُ : چمکا۔ سخت۔ مصیبت۔ لمبی
 گردن۔
 المَرَمَرِيَّةُ : گینڈا۔
 مَرِنٌ (ن) مَرُونَةٌ وَ مَرُونَةٌ : مَرَاتِيَا : تھوڑی سختی
 کے ساتھ نرم ہونا — يَدُهُ عَلَيَّ الْعَمَلِ وَ
 وَجْهَهُ عَلَيَّ الْأَمْرِ : سخت ہونا () — مَرُونًا وَ
 مَرَاتِيَا : عَلَيَّ الشَّيْءِ : عادی ہونا۔
 مَرِنٌ (ن) مَرَاتِيَا : کھال کو نرم کرنا۔
 — مِنْ عَدُوِّهِ : دشمن سے بھاگنا — بِهِ
 الْأَرْضُ : زمین پر چل دینا۔
 مَرِنٌ الشَّيْءِ : نرم کرنا — فَلَانًا عَلَيَّ الْأَمْرِ :
 عادی بنانا — بِهِ الْأَرْضُ : زمین پر چل دینا۔
 تَمَرَّنٌ : بکلف دانا و زیرک بننا۔ مہربان ہونا
 — عَلَيَّ الشَّيْءِ : عادی ہونا۔
 تَمَازِيَةٌ : مَرَاتِيَا : دودھ دینے سے رک جانا۔
 المَرِنُ : مہ۔ ایک قسم کا کپڑا۔ نرم کھال۔ لباس
 پوشین۔ عطیہ۔ جانب۔ ح آمْرَانِ : مرنا۔

”شَقِي مَزْجًا“ فاضل چیز۔
 المَزْجُ كَمَثَرِ مَوْنُثِ مَزْجَةٍ۔
 المَزْجُ وَالْمَزْجَانِ وَالْمَزْجَةُ خَوْشَوَارِ شَرَابِ الْمَزْجَةِ
 بِأَيْكَ مَرْتَبَةٍ جُوسًا كَمَا جَاءَ فِي “مَاتِقِي لِيَنِ الْإِنَاءِ
 الْأَمْرَةَ“ بِرْتَنٍ فِيهِ سِرْفٌ تَمُوْرًا سَابِقًا رَهًا۔
 المَزْجُ كَثْرَتٌ۔ اور کہا جاتا ہے ”فَعَلَعْتُ عَلَى
 مَزْجٍ“ یعنی میں نے اس کو مہلت سے کیا۔
 المَزْجُ نَزْرًا فَاضِلٌ۔ تَمُوْرًا۔ مَتٌ۔ دُشْوَارٌ۔
 الْأَمْرَةُ فَاضِلٌ۔ اَفْضَلٌ۔ دُشْوَارٌ۔ مَوْنُثٌ مَزْجًا ج
 مَزْجٍ۔
 مَزْجٌ (ن) مَزْجًا وَهَذَا الشَّرَابُ بِالنَّعَاءِ :
 پانی ملانا — فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ : آسانا۔ براگینتہ
 کرنا۔
 مَا زَجَّهُ مَمَّا زَجَّهُ۔ مخالفت کرنا۔ فخر کرنا۔
 مَزْجٌ الشُّبْلُ : سبزی کے بعد زرد ہونا۔
 فَلَانًا : پھونکنا۔
 تَمَّا زَجَّ بِأَيْمٍ أَيْكَ دُشْوَارٌ سِرْفًا كَمَا لَمَّا۔
 اِمْتَزَجَ بِهِ : ملانا۔
 الْمَزْجُ وَالْمَزْجُ شَدِيدٌ پانی جو شراب میں ملایا
 جائے۔
 الْمَزْجُ ج۔ مہ۔ ملانے کی چیز (جیسے پانی شراب
 میں) مزاج ج۔ آمزجہ۔
 زَجَلٌ مَزْجٌ : جھوٹا گڑبڑ کرنے والا۔ ایک
 عادت پر پانی نہ رہنے والا۔
 الْمَزْجُ نَجٌّ : ملایا ہوا۔ کڑوا ہوا۔
 مَزْجٌ (ف) مَزْجًا مَذَاقٌ کرنا۔ دل لگی کرنا۔
 مَزْجٌ الشُّبْلُ أَوْ الْعَنْبُ : رنگ پکڑنا۔
 مَا زَجَّهُ مَزْجًا وَهَذَا مَمَّا زَجَّهُ نَبِيٌّ مَذَاقٌ کرنا۔
 تَمَّا زَجَّ بِأَيْمٍ نَبِيٌّ مَذَاقٌ کرنا۔
 مَزْجٌ جہ : فخر کرنا۔
 الْمَزْجُ مہ۔ خوشہ۔
 الْمَزْجُ أَحَقُّ الْمَزْجِ نَبِيٌّ مَذَاقٌ۔ دل لگی۔
 الْمَزْجُ ج۔ مہ۔ نَبِيٌّ مَذَاقٌ کرنے والا۔
 الْمَزْجُ مِنَ النَّاسِ : نَبِيٌّ مَذَاقٌ کرنے والے
 لوگ۔
 الْمَزْجُ سُرُوِيٌّ۔
 مَزْجٌ (ن) مَزْجًا مِنَ اللَّبَنِ : تَمُوْرًا سَابِقًا۔
 اللَّبَنِ : دودھ کو چکھنے کے لیے پینا۔ ہ۔ آہستہ

سے چکلی لینا۔ غصہ دلانا) — وَمَزْجٌ الْقَرْيَةُ : منگ
 بھرتا۔
 مَزْجٌ (ك) مَزْجًا : طریف ہونا۔ سخت دل ہونا۔
 تَمَزَّجَ التَّجِيْدَ : تَمُوْرًا تَمُوْرًا دیر کے بعد چکھنا۔
 المَزْجُ مہ۔ مرو طریف۔
 المَزْجُ : جویاگیوں کی شراب : تَمَزَّجَ : اصل۔
 کہا جاتا ہے ”هُوَ كَرِيْمٌ الْمَزْجُ : تَمَزَّجَ : اصل
 ہے۔
 المَزْجُ نَزْرًا : طریف۔ سخت دل۔ ج۔ آمزجہ۔
 الْأَمْرَةُ : اِمْتَزَجَ : ام تفضیل ہے مَزْجُ سے مَوْنُثِ
 مَزْجًا ج۔ مَزْجُ و مَزْجُ آمزجہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ مِنْ
 آمزجِ النَّاسِ“ وہ افاضل الناس میں سے ہے۔
 المَزْجَةُ : ایک مرتبہ جوسا۔
 مَزْجٌ (ف) مَزْجًا الطَّبِيْبُ وَالْحَوَّةُ : ہرن کا آہستہ
 سے چھلانگ مارنا) — وَمَزْجٌ الْقَطْنُ : روٹی
 تو سنا۔ مَزْجٌ الشَّقِي : متفرق کرنا۔
 تَمَزَّجَ : جدا جدا ہونا۔ تَمَزَّجَ عَوَا الشَّقِي يَتَمَزَّجُ :
 انہوں نے چیز آپس میں تقسیم کر لی اور کہا جاتا ہے
 ”هُوَ يَتَمَزَّجُ غَنِيْمًا“ وہ غم کی وجہ سے پھٹ پڑا۔
 المَزْجَةُ : روٹی وغیرہ کا ٹکڑا۔ ج۔ مزج ()
 وَالْمَزْجَةُ مِنَ لَحْمٍ أَوْ شَحْمٍ : گوشت یا چربی کا
 ٹکڑا۔
 مِنَ النَّعَاءِ : پانی کا گھونٹ۔ ج۔ مزج و مَزْجُ :
 المَزْجُ ج۔ مہ۔ مَتٌ۔ دُشْوَارٌ۔ سہی۔
 الْمَزْجَةُ : مِنَ الشَّقِي : روٹی وغیرہ کا وہ حصہ جو
 نوٹے وقت کرے۔
 الْمَزْجِيُّ : چھل خور۔
 فَرَسٌ وَمَزْجٌ : تیز رفتار گھوڑا۔
 مَزْجٌ (ن) مَزْجًا وَمَزْجًا مَزْجًا الْقَوْبُ : بھاڑنا۔
 عَزَّضَهُمْ : طعنہ مارنا۔ عیب لگانا۔ صفت مَزْجٌ ج۔
 مَزْجُونَ : جیسے ”أَتَانِي إِيْتَهُمْ مَزْجُونَ عَزَّضِي“ مجھ
 کو یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ میری آمد میں عیب
 لگاتے ہیں — الْعَلَائِزُّ بِسَلْجِجِهِ : پرندہ کا بیٹ
 کرنا۔
 مَزْجٌ الْقَوْبُ : چیر چیر کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَزْجُهُمْ
 اللَّهُ كَلَّ مَزْجِي“ اللہ ان کو پورے طریقے سے
 پر آگندہ کرے۔
 مَا زَجَّهُ : دوڑنے میں آگے بڑھ جانا۔

تَمَزَّجَ : پھینا۔ الْقَوْمُ : متفرق ہونا۔
 اِنْمَزَّجَ : پھینا۔
 المَزْجَةُ : کپڑے وغیرہ کا ٹکڑا۔ اور کہا جاتا ہے
 ”نَوْبٌ مَزْجٌ وَمَزْجٌ وَمَزْجِيٌّ“ پھینا ہوا کپڑا۔
 نَاقَةٌ أَوْ فَرَسٌ مَزْجٌ : تیز رفتار۔ گویا کہ تیز
 رفتاری کی وجہ سے کمال پھیننے کے قریب ہے۔
 مَزْجَةُ : اکھیرنے کیلئے بلانا۔
 تَمَزَّجَ : حرکت کرنا — لِلْقِيَامِ : اٹھنے کے
 لیے تیار ہونا۔
 مَزْجٌ (ن) مَزْجًا وَمَزْجًا : چلا جانا — وَجْهَهُ :
 چہرہ کا چمک اٹھنا — مِنَ الْعَدُوِّ : دشمن سے
 بھاگنا) — وَمَزْجٌ الْقَرْيَةُ : منگ بھرتا۔
 فَلَانًا : تعریف کرنا۔ فضیلت دینا۔
 تَمَزَّجَ : چلا جانا — عَلَى الْقَوْمِ : مہربانی و
 سخاوت کرنا۔ بکھف فضل ظاہر کرنا۔ بکھف
 زیرک بننا — عَلَى الْأَمْرِ : عادی ہونا۔
 الْمَزْجُ : بادل۔ سفید بادل۔ پانی سے بھرا ہوا
 بادل۔ حَبُّ الْمَزْجِ : بولہ۔
 الْمَزْجَةُ : بادل کا ٹکڑا۔ بارش۔ اَبْنُ الْمَزْجَةِ : بیا
 چاند۔
 الْمَزْجُ : عادت۔ طریقہ۔ حال۔ کہا جاتا ہے ”مَا
 زَالَ عَلَى هَذَا الْمَزْجِ“ ہمیشہ اس حالت پر رہا۔
 الْمَزْجُ : فاجیوٹی کے انڈے۔
 مَزْجَةٌ : معر کا ایک قبیلہ اور نسبت کے لیے
 مَزْجِيٌّ۔
 مَزْجٌ (ف) مَزْجًا : نسی مذاق کرنا۔
 مَزْجٌ مَزْجٌ مَزْجًا : تکبر کرنا۔
 مَزْجَةٌ مَزْجَةٌ : تعریف کرنا۔ فضیلت دینا۔ کہا جاتا
 ہے ”مَزْجٌ مَتَاعَةٌ حَتَّى تَفْقَهُ لَه“ میں نے
 اس کے سامان کی تعریف کی یہاں تک کہ اس کو
 راجح کر دیا۔
 تَمَّا زَجَّ الْقَوْمُ : قوم میں سے ہر ایک کا اپنی
 فضیلت کا دعویٰ کرنا۔
 الْمَزْجُ وَالْمَزْجَةُ : ج۔ مَزْجًا وَالْمَزْجَةُ : ج۔
 مَا زَجَّاتِ : علم۔ کرم۔ شجاعت وغیرہ میں فضیلت
 جس کی وجہ سے دوسرے سے امتیاز ہو جائے۔
 خَوْلِيٌّ : عموگی۔
 مَزْجِيٌّ مَزْجِيٌّ : تکبر کرنا۔

مَرْوَى تَمْشِيَةُ الرَّجُلِ: تعریف کرتا۔
 کہا جاتا ہے "فَعَدَّ عَيْنِي مَازِيًا وَمَتَمَّازِيًا" یعنی
 مجھ سے دور مخالفت ہو کر بیٹھا۔
 الْمَرْوَةُ: سرکش لوگ۔ مفرد مَازِيًا۔
 الْمَازِيَةُ: حج مَازِيَاتِ، وَالْمَرْوَةُ: حج مَازِيًا۔
 علم۔ کرم۔ شجاعت، شرافت وغیرہ میں فضیلت
 جس کی وجہ سے دوسرے سے ممتاز ہو جائے۔
 الْمَرْوِيُّ: مرد خوش طبع، زیرک۔

مَسَّ (ن ن) مَسًا وَمَسِيئًا وَمَسِيئِي
 الشَّيْءِ: چھونا۔ پینچنا۔ — الْمَرَضُ او الْكَبِيرُ
 فَلَانًا: لاحق ہونا۔ مَسَّتِ الْخَاجَةَ اِلَى كَذَا
 مجبور کرنا۔ — مَسِيئِي الشَّيْطَانُ يَنْصُبُ
 وَعَذَابُ: شیطان نے مجھ کو ایذا و تکلیف
 پہنچائی۔ اور کہا جاتا ہے "مَسَّتْ فَلَانًا مَوَاسِ
 الْعُزْرِ او الشَّرَّ" یعنی فلاں کو خیر یا شریٹش آئے۔
 "وَمَسَّتْ بِلِكَ رَحِمَ فَلَانٍ" جبکہ تم مردوں کے
 درمیان قرابت قریبہ ہو۔

مَسَّ مَسًا: جنون لاحق ہونا۔ صفت
 مَسْمُوسٌ۔
 مَاسَةً مَفْاسَةً وَمَسَاسًا: چھونا۔ جماع کرتا۔
 أَمَسَهُ الشَّيْءُ: چھونا۔ اور کہا جاتا ہے "أَمَسَ
 وَجْهَهُ الْمَاءُ او بَدَنَهُ الْعَلِيْبُ" چہرہ پر پانی لگایا
 بدن پر خوشبو۔

تَمَاسَ الشَّيْئَانِ: ایک دوسرے کو چھونا۔
 الْمَاسُ فَا: خَاجَةٌ مَاسَةً: شدید حاجت اور
 کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ رَحِمٌ مَاسَةٌ" ان کے
 درمیان قرابت قریبہ ہے۔
 مَسَّاسٌ: اسم فعل یعنی امر یعنی چھو۔ اور کہا
 جاتا ہے لَا مَسَّاسَ لِي مَتَّيْئُوه۔
 الْمَسْمُوسُ مِنَ الْمَاءِ: پانی جو ہاتھوں سے لیا جا
 سکے۔ بیٹھا صاف پانی۔ کھاری پانی۔ پیاس دور
 کرنے والا پانی۔ کلاماً مَسْمُوسٌ: چرنے والے
 جانوروں کے لیے مفید گھاس۔
 الْمَيْسُ: تانا۔
 الْأَمْسُ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے هُوَ أَمْسُ
 مِنْ ذَاكَ بِكَذَا۔

الْمَاسُوسُ وَالْمَسْمُوسُ: پاگل۔ مجنون۔
 وَارِسٌ۔

مَسِيئِ الْمَاجَةِ: حاجت کا مجبور کرنا۔
 الْمَسَّاسُ: بہت چھونے والا۔ کہا جاتا ہے
 "بَيْنَهُمْ رَحِمٌ مَسَّاسَةٌ" یعنی ان کے درمیان
 بہت زیادہ قرابت قریبہ ہے۔

مَسَا (ف) مَسًا وَمَسُوًا: بیباک ہونا۔
 الْمَاسِي: دیر کرنا۔ — الْحَقُّ: جن کو دیر میں ادا
 کرنا۔ — الظَّرِيفِيُّ: راستہ کے درمیان میں چلنا۔
 عَلَى الشَّيْءِ: عادی ہونا۔ — الرَّجُلُ بِالْقَوْلِ
 وَعُزْرِهِ: کسی کو گفتگو سے نرم کروانا۔ دھوکا دینا
 — وَأَمْسَاهُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔
 تَمَسَا الْقَوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

مَسَحَ (ف) مَسَحًا الشَّيْءُ: پونچھنا۔ مریض
 کے لیے دعا کے موقع پر کہا جاتا ہے "مَسَحَ اللَّهُ
 مَا بَيْنَكَ مِنْ عِلَّةٍ" یعنی اللہ تعالیٰ تیریں عافیت دیں
 اور مرض کو زائل کر دیں۔ — هُوَ بِالذَّهْنِ: تیل ملنا
 — هُوَ بِالشَّيْفِ: تلوار سے کاٹنا۔ — ذَوَائِبُ
 الْمَرْوَةِ: کنگھی کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "مَسَحَهُ او
 مَسَحَ رَأْسَهُ" یعنی اس نے فریب دینے کیلئے نرم
 باتیں کیں۔ — "مَسَحَ الْقَوْمَ قَتْلًا" قوم کو خوب
 اچھی طرح قتل کیا" — وَمَسَحَهُ اللَّهُ: اللہ نے اس
 کو مہارک پیدا کیا۔ اللہ نے اس کو ملعون پیدا کیا۔
 مَسَحَ فَلَانًا بَارًا۔

— عَثَقَهُ: گھاسا۔ — الْأَيْلُ: اُونٹ کو تھکانا اور
 لاغر کرنا۔ — سَيْفُهُ: تلوار سونٹنا۔ — الْمَرْوَةُ:
 جماع کرتا۔

مَسَحَ (ف) مَسَحًا وَمَسَاخَةً: پینچنا کرنا
 — مَسَحًا وَمَسَاخًا: جھوٹ بولنا۔
 مَسَحَ (ف) مَسُوحًا خَافِي الْأَرْضِ: جانا۔
 مَسِيحٌ (س) مَسَحًا: کپڑے کے کھردرے پن
 کی وجہ سے رانوں کا چھل جانا۔
 مَسِيحٌ بِالْعَتِقِ او الْكُرْمِ: کسی پر شرافت یا کرم
 کا اثر ہونا۔

مَسَحَ الشَّيْءُ: پونچھنا۔ مَسَحًا بِالذَّهْنِ: تیل
 ملنا مَسَحَ فَلَانًا: فریب دینے کیلئے اچھی بات کہنا
 — الْأَيْلُ: اُونٹ کو تھکانا اور لاغر کرنا۔
 مَسَاخَهُ مَسَاخَةً: فریب دینے کیلئے اچھی
 بات کہنا۔ مصافحہ کرنا۔ — هُوَ عَلَى كَذَا: معاہدہ کرنا۔
 تَمَسَحَ بِالْمَاءِ وَ مِنَ الْمَاءِ: غسل کرنا۔

الشَّيْءِ: پونچھنا۔ وَ تَمَسَحَهُ بِالْمَاءِ او الذَّهْنِ:
 نہلا نایا تیل ملنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَتَمَسَّحُ بِهِ"
 فلاں اس کی بزرگی کی وجہ سے برکت حاصل کرتا
 ہے۔

تَمَسَّحًا: اتفاق کرنا۔ خرید و فروخت کرنے
 میں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ کہا جاتا
 ہے "تَمَسَّحُوا عَلَيَّ كَذَا" یعنی فلاں چیز پر
 سموں نے عہد و پیمان کیا "والتَّقْوَا
 لَتَمَسَّحُوا" وہ سب ملے اور باہم مصافحہ کیا۔
 اِمْتَسَحَ الشَّيْفُ: تلوار سونٹنا۔

المَسْحُ: ٹٹ۔ کبل۔ ادنی لباس جس کو زائد
 لوگ نقشف کی بناء پر پٹا کرتے تھے۔ راستہ کا
 وسط ج مَسَاخٌ وَمَسُوحٌ۔

المَسْحَةُ: مسح کا اسم مرۃ۔ کیلے ہاتھ کاٹنا۔
 اور اسی سے ہے جو کہا جاتا ہے "عَلَيْهِ مَسْحَةٌ
 مِنْ جَمَالٍ او هَزَالٍ" اس کے اوپر جمال یا لاغری
 کا کچھ اثر ہے۔

المَسْحُ: ہم۔ کپڑے کے کھردرے پن کی وجہ
 سے ران یا ٹٹنے کے اندرونی حصہ میں سوزش۔
 الْمَسَاخَةُ: مصدر یا مَسَحَ الْأَرْضَ کا اسم ہے
 عِلْمُ الْمَسَاخَةِ: وہ علم ہے جس میں مقادیر
 مخلوط و مطروح و اجسام سے بحث کرتے ہیں۔

المَسِيحُ: تیل لگا ہوا حج مَسْحَاءٌ و
 مَسْحِي: لقب حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ کا۔ بہت
 سیاحت کرنے والا۔ چاندی کا ٹکڑا۔ پیوند۔ بہت
 سچا۔ کاٹا۔ گز۔ بہت چھوٹا۔ خوبصورت۔ بدصورت۔
 بہت جماع کرنے والا۔ — مِنَ الذَّرَاهِمِ: گھسا
 ہوا درہم۔

المَسِيحِيُّ: حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ کا تابع۔
 الْمَسِيحَةُ: سر کے دونوں جانب کے بال۔
 گیسو۔ کنپٹی اور پیر پٹائی کا درمیان۔ کلان۔ چاندی کا
 ٹکڑا۔ حج مَسَاخِيحٌ۔

المَسَايِحُ: فا۔ بڑا چھوٹا۔ بہت قتل کرنے والا۔
 الْمَسَايِحَةُ: المَسَايِحُ کا مؤنث۔ کنگھی چوٹی
 کرنے والی۔ حج مَوَاسِيحٌ۔

المَسَاحُ: زمین کی پینچنا کرنے والا۔
 الْمَسِيحُ: بڑا سیاح۔
 الْأَمْسَحُ: کھردرے کپڑے کی رگڑ سے ران

یا کھنے کے اندرونی حصہ میں سوزش والا۔ ہموار
تکڑے والا۔ بڑا جھوٹا — **مِنْ الْأَرْضِ** : ہموار
زمین ج **أَمَاسِح** : بڑا سیاہ۔ کانا۔ مَوْت
مَسْحَاء۔

الْمَسْحَاء : کھریوں والی ہموار زمین۔ سرخ
زمین۔ ج **الْمَسَاحِ وَالْمَسَاجِي** : چھوٹے
پشتاں والی عورت۔ کہا جاتا ہے "إِمْرَأَةٌ
مَسْحَاءُ الْقَدِي"۔

التَفْسِخ : بڑا جھوٹا۔ فریب دینے کیلئے نرم
بات کہنے والا۔ بڑا سرکش — **وَالْيَمْسَاحِ** : مگر
مجھ ج **تَمَاسِیحٍ وَتَمَاسِیحِ**۔

الْمَمْسُوحِ وَالْمَمْسُوحَةِ جس سے پونچھا
جائے۔

مَسْحَةُ (ف) مَسْحَاءُ بڑی صورت میں بدل
دینا اور اسی سے ہے جو کہا جاتا ہے "مَسْحَهُ اللّٰهُ
قَوْلًا" اللہ نے اس کو بندر کی صورت میں بدل
دیا۔

صفت معنوی **مَسْحٌ** و **مَسِيحٌ** ج **مَسِيحٌ** —
الْكُتَابِ : کھنے میں بہت غلطی کرنا — **الثَّاقِفَةُ** :
اُدنی کو لاغری کرنا — **طَعْمُ اللَّحْمِ** : گوشت کو
بے مزہ کرنا۔

أَمَسَخَ الْوَزْمَ : ورم کا تحلیل ہونا۔
تَمَسَّخَ الْغَزْلَ : کٹڑے کٹڑے ہونا۔
أَمَسَّخَتْ وَ **أَمَسَّخَتِ** الْعَضْدَ : کم گوشت
والا ہونا۔ اسم **الْمَسْخِ**۔

إِمْتَسَخَ الشَّيْفَ : کھوار سونچنا۔
الْمَاسِيحِي : کمان ساز۔
الْمَسِيحِ بد شکل — **مِنْ الطَّعَامِ** : بے مزہ یا
بے نمک۔ بیوقوف۔

الْأَمْسُوحِ : ایک قسم کی نباتات جس کا دانہ
چنے کے برابر ہوتا ہے۔
الْمَمْسُوحِ : مہم۔ **فَرَّشَ** مَمْسُوحٌ : سرین پر
کم گوشت والا کھوڑا۔

مَسَدٌ (ن) مَسَدٌ الْخَيْلِ : رسی بٹنا یا مضبوط
بٹنا — **هِيَ السَّيْرُ** : تھکانا۔
مَسَدُ الْبَطْنِ : بیٹ کا نرم و ہموار ہونا۔
مَسَدَ الشَّيْءِ وَ **عَلَى** الشَّيْءِ : سختی سے ہاتھ
پھیرنا۔

المَسَد۔ کھجور کے ریش کی رسی۔ یا مضبوط بنی
ہوئی رسی۔ کھجور کا ریشہ۔ لوہے کا ڈھرانج۔ **مَسَادُ**
أَمْسَاد۔

المَسَاد۔ شد کا مشکیں۔ درختی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
أَحْسَنُ مَسَادٍ شَعْرٍ مَثَلُكَ" اس کے بالوں کی
درختی ترے بالوں سے اچھی ہے۔

الْمَمْسُودِ مہم۔ **رَجُلٌ مَمْسُودٌ** : گھٹے بدن کا
مرد۔

سَاقٌ مَسْدَاءٌ۔ اچھی ہموار پنڈلی۔
مَسْرُةٌ (ن) مَسْرُةٌ۔ کھینچنا اور سختی سے باہر نکالنا
— **التَّامِسُ** : کتہ چینی کرنا۔ درغلانا۔

مَسَطَ (ن) مَسَطًا انگلی ڈال کر آنت میں سے
نکالنا — **التَّوْبُ** : تر کرنا۔ پھر نچوڑنا — **فَلَانًا**
بِالسَّيَاطِ : کوزے سے مارنا — **السِّقَاءُ** :
بھگیزہ سے بجا ہوا دودھ انگلی سے نکالنا۔

المَصَابِطُ۔ قا۔ کھاری پانی جو پیٹ کو صاف کر
دے۔ ایک قسم کی گھاس جو گری کے زمانہ میں
ہوتی ہے کہ جب اس کو اونٹ چرتا ہے تو اس کا
پیٹ صاف ہوتا ہے۔

المَسِيْطُ۔ گارا۔ گدلا پانی جو حوض میں باقی رہ
جائے۔
المَسِيْطَةُ۔ گدلا پانی۔ تھوڑا پانی بہانے والی
وادی۔

الْمَسِيْحُ۔ شمال ہوا۔
الْمَسِيْحِيُّ۔ بہت سیروسز کرنے والا مرد۔
أَمْسَحَ وَ **أَمْسَعَ** الزَّجْلَ : علیحدہ ہونا۔
مَسَكٌ (ن ض) مَسَكًا۔ چٹنا۔ متعلق ہونا۔

بِالتَّارِ : زمین میں گڑھا کھود کر راکھ سے آگ کو دیا
دینا۔
مَسَكٌ (ك) مَسَاكَةٌ السِّقَاءُ : بھگیزہ کا پانی کو
گرنے نہ دینا۔

مَسَكٌ بہ : چٹنا۔ **مَسَكَةٌ**۔ مسک سے خوشبودار
کرنا۔
أَمْسَكَةٌ روکنا۔ **أَمْسَكْتُ** بہ : چٹنا — **الشَّيْءِ**
عَلَى نَفْسِهِ : اپنے لیے حفاظت کرنا — **اللّٰهُ**
الْفَيْثُ : بارش روکنا — **عَنِ الْأَمْرِ** : روکنا۔ باز
رہنا — **عَنِ الْكَلَامِ** : خاموش رہنا۔

تَمَسَّكٌ وَ تَمَاسَكٌ وَ **أَمْسَكَ** بہ : چٹنا۔ اور

کہا جاتا ہے "مَا تَمَاسَكَ أَنْ قَالَ كَذًا" یعنی وہ
فلاں بات کہنے سے نہیں رکا۔ "وَ غَسِيَتْ أَمْرٌ
مُفْلِقٌ لِقَمَاسِكْتُ" میرے اوپر ایک رنجہ
معالفہ آ پڑا اس لیے میں رک گیا۔ "وَ مَا بِهِ
تَمَاسِكٌ" اس کے اندر کوئی خیر نہیں
"وَ أَمْسَكَ لَهَا الْبَلْدُ" وہ شہر میں ٹھہرا رہا۔

إِسْتَمْسَكَ بہ : چٹنا — **عَنْ كَذَا** : باز رہنا
— **بِوَالِدِهِ** : پیشاب بند ہونا — **الزَّجْلُ** **عَلَى**
رَاحِلَةٍ : جم کر بیٹھنا۔

المَسْكُ۔ مہم۔ کھال۔ ج **مَسْكٌ** وَ **مُسْوَكٌ**۔
ایک کٹڑے کو "مَسْكَةٌ" کہتے ہیں۔

المَسْكُ۔ پانی روکنے کا بند۔ زمین کے
طبقات۔ ہاتھی دانت یا ہڈی کے ٹکڑے یا پازیب۔
کچھوے کی کھال۔ **مَجْمَلِي** کی ہڈی۔ واحد **مَسْكَةٌ**۔
المَسْكُ۔ بقاء بدن کے مقدار کھانا پانی عقل
کامل۔

المَسْكُ۔ مسک۔ کستوری۔ یہ ایک جانور کا
خون ہے جو اس کی ناف میں جمع ہوتا ہے اور اس
جانور کو غزال **المَسْكُ** کہتے ہیں اور مسک کے
کٹڑے کو **مَسْكَةٌ** کہتے ہیں۔ ج **مَسْكٌ**۔ **مَسْكٌ**
النَّبْوِ وَ مَسْكٌ النِّجْنِ : دو قسم کی نباتات۔ لفظ
مَسْكٌ فراء کے نزدیک مذکر ہے اور دوسرے
انکر لغت کے یہاں مذکر و مؤنث دونوں۔

المَسْكَةُ جس سے تعلق کیا جائے۔ بقاء بدن
کی مقدار کھانا پانی۔ عقل تام و رائے کامل۔ سخت
کنواں جس میں من بہانے کی ضرورت نہ ہوج
مَسْكٌ۔ کہا جاتا ہے "مَافِيهِ مَسْكَةٌ" یعنی اس
میں کوئی خیر نہیں "وَ لَيْسَ لِأَمْرِهِ مَسْكَةٌ" یعنی
اس امر کے لیے کوئی اصل نہیں جس پر اعتماد کیا
جائے۔ "وَ فِيهِ مَسْكَةٌ مِنْ خَيْرٍ" اس کے اندر
خیر کا کچھ بقید ہے۔ "وَ مَا فِي سِقَائِهِ مَسْكَةٌ مِنْ
مَاءٍ" اس کے بھگیزہ میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں۔

المَسْكَةُ وَ المَسْكَةُ۔ بخل۔
المَسْكَةُ۔ بخل۔ وہ شخص جو کسی چیز سے چٹے
تو اس سے چھٹکارا نہ پاسکے۔ وہ شخص کہ جب کوئی
اس کے مقابل ہو تو وہ ہماگ کھڑا ہوج **مَسْكٌ**۔
المَسَاكُ۔ پانی روکنے کا بند۔ بخل۔

المَسَاكُ۔ بخل۔ روکنے والی چیز۔ کھوار وغیرہ کا

المَسَاكُ۔ بخل۔ روکنے والی چیز۔ کھوار وغیرہ کا

دست اور کہا جاتا ہے "مَا فِيهِ مَسَاكٌ" یعنی اس کے اندر خیر نہیں۔

المَسَاكَةُ وَالْمَسَاكَةُ - مَجْل -
المَسَاكَاتُ - وہ مقامات جہاں پانی کی حفاظت کی جائے۔

المَسْكَانُ - بیگانہ - ج مَسَاكِينُ -
المَسْكِينُ وَالْمَسْكِينَةُ - دیکھو مادہ س ک ن۔

المَسْكُ وَالْمَسَاكُ وَالْمَسْكِيكُ - مَجْل -
المَسْكِيكُ ج مَسْكُ وَالْمَسْكِيكُ - مَجْل -
کہا جاتا ہے "سِفَاةٌ مَسْكِيكٌ وَمَسْكِيكٌ" مَسْكٌ جو پانی کو روکے بننے نہ دے۔ "وَمَا فِيهِ مَسْكِيكٌ" اس کے اندر خیر نہیں۔

الإِمْسَاكُ - مَجْل -
المَسْبِيكَةُ وَالْأَرْضُ الْمَسْبِيكَةُ - زمین جو خنی کی وجہ سے پانی کو جذب نہ کرے۔

المَسْبِيكَةُ وَالْمَسْبِيكَةُ - ایک قسم کی نباتات۔
مَسْلٌ (ن) مَسْلًا لِمَاءٍ پانی بہنا۔
إِمْتَسَلَتِ السَّيْفُ - تلوار سونٹا۔

المَسْلُ پانی بہنے کی جگہ - ج أَمْسَلَةٌ وَمَسْلٌ مَسْلَانٌ وَمَسَائِلٌ -
مَسَالًا الرَّجُلُ - مرد کے دونوں بازو یا داڑھی کے دونوں جانب یا مرد کے دونوں پہلو۔

مَسَالَةُ الْوُجُوهِ - حسن کے ساتھ چہرے کی لباہی۔

المَسِيلُ - ہماؤ - دودھ وغیرہ کا آبی حصہ - تر نشی - ج مَسِيلٌ وَأَمْسِلَةٌ - مَسِيلُ الْمَاءِ - پانی بہنے کی جگہ - س 'ی' ل کے مادہ میں مذکور ہے۔

مَسْمَسٌ مَسْمَسَةٌ وَمَسْمَسَاتُ الْأُمُرِّ - مَخْلَطٌ ہوتا - ملبس ہوتا - کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ أَمْرِ فِينِ مَسْمَاسٍ" وہ اپنے معاملہ میں اشتباہ میں ہے۔

مَسْمَسٌ الرَّجُلُ - جنوبی کیفیت لاحق ہونا۔
المَسْمَاسُ - ہلکا۔

مَسَسَ (ن) مَسَسًا الرَّجُلُ - بے باک ہونا۔
مَارَتَ مَارَتَ الرَّوْحَ - الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ -
کھینچنا۔

مَسَايِمُسُو مَسْوًا - الْجِمَارُ - گرمے کا ڈنڈا -
- وَمَسَى تَمْسِيَةً الرَّجُلُ - کسی چیز کا وعدہ کر

کے ٹانا۔

مَسَاةٌ تَمْسِيَةٌ - شام کے بہتر ہونے کی دعا دینا۔
یہ کہنا کہ تم نے شام کس طرح بسر کی - اور کہا جاتا ہے "مَسَى بِهِ اللَّيْلُ" جبکہ کوئی شخص شام کے وقت آئے۔

أَمْسَى امْسَاءً وَمُتَمَسَى - شام میں داخل ہونا۔
کلان کی طرح فعل ناقص ہو کر بھی مستعمل ہے۔
جیسے "أَمْسَى زَيْدٌ صَاحِبًا كَمَا" یعنی زید شام کے وقت بس رہا تھا یا زید بس رہا تھا۔

أَمْسَاهُ امْسَاءً - کسی چیز سے مدد کرنا - وعدہ کر کے ٹانا۔

مَسَاةٌ مَسَاةً - مَجْلُورٌ کرنا۔
إِمْتَسَى إِمْتِسَاءً مَا عِنْدَ فَلَانٍ - کل لے لینا۔
المَسَاءُ ج أَمْسِيَةٌ وَالْمَسَى وَالْمَسَى شام

ظہر سے مغرب تک کا وقت۔
الأَمْسِيَّةُ - شام - کہا جاتا ہے "أَتَيْتُهُ أَمْسِيَّةً" آؤں "میں کل گزشتہ شام کے وقت اس کے پاس آیا۔

المَسْمَى - شام بسر کرنے کی جگہ۔
مَسَى يَمْسِي مَسِيًا الشَّيْءُ - ہاتھ سے پونچھنا -
- الْحَزْرُ الْمَسِيَّةُ - گرمی کا جانور کو لاغر کرنا -

السَّيْفُ - تلوار سونٹنا - الرَّجُلُ - برے خلق والا ہونا۔

تَمَسَى وَتَمَسَى الشَّيْءُ - گلے گلے ہونا۔
إِمْتَسَى إِمْتِسَاءً - بیا سا ہونا۔
المَقَابِسُ - نا - وہ شخص جو کسی کی نصیحت نہ سنے۔

رَجُلٌ مَسِيٌّ - ہلکا پھلکا مرد۔
المَقَابِسُ - مہمہمیں (اس کا مفرد نہیں)

مَسَّ (ن) مَسًّا الْعَظْمُ - ہڈی کے اطراف کو چرنا - النَّاقَةُ - اونٹنی کو روہتا اور کچھ چھوڑ دینا۔
سار اور دودھ دھونا - مَا لَ فَلَانٍ - تھوڑا تھوڑا کر کے لینا - يَدُهُ - ہاتھ سے چکنا ہٹ دور کرنے کیلئے پونچھنا - فَلَانًا - دشمنی کرنا - بھگڑا کرنا - الشَّيْءُ - پانی میں حل کرنے کیلئے بھگوانا۔

مَسَّشٌ وَتَمَسَّشَ الْعَظْمُ - ہڈی چوس کے گودا کھانا۔
أَمَسَّ الْعَظْمُ - ہڈی کا گودے والی ہونا۔

إِمْتَسَرَ لَهُ الشَّيْءُ - حاصل ہونا۔

أَمْتَسَرَ الْقَرْبُ - کپڑا اتار لینا - مَا فِي الصَّنُوعِ - تھن سے سار اور دودھ لینا - مِنْ هَالِ فَلَانٍ - حصہ پانا - الْعَظْمُ - چبائی ہوئی ہڈی کو چرنا - الْمُتَمَسِّطُ - پانچٹانہ کرنے والے کا پتھر یا ڈھیلے سے استخرا کرنا۔

المَشَاشُ - مَشَاشَةٌ - جمع - نرم زمین - اصل لَسَ - طبعیت - کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَيْسَ مِنَ الْمَشَاشِ" فلاں نرم اخلاق ہے و مَشَاشٌ الرَّجُلُ - سفرو حفر کے خدام۔

المَشَاشَةُ - نرم ہڈی کا سرا - راستہ کہ جس میں خاک اور نرم سنگ ریزے ہوں - پہاڑ کہ جس میں چشمے اہل رہے ہوں - ج مَشَاشٌ - مَشَاشَةٌ - القَوْمُ - قوم کے بہترین لوگ۔

المَشَّ - مہ - کہا جاتا ہے "أَطْعَمَهُ هَشْمًا" اس نے اسے عمدہ خوراک کھلائی۔

المَشَشُ - سفیدی جو اونٹ کی آنکھ میں ہو جاتی ہے۔

الْأَمَشُ - مِنْ الْإِبِلِ - آنکھ میں سفیدی والا اونٹ - مَوْتٌ مَسَاءً ج مَشَّ - المَشْوَشُ - ہاتھ پونچھے کا کپڑا جیسے رومال - تولیہ وغیرہ۔

مَشَّجَهُ (ن) مَشَّجًا كَذَا - ملانا - کہا جاتا ہے "مَشَّجَ يَتَشَّجُهُمَا"

المَشَّجُ وَالْمَشَّجُ وَالْمَشَّجُ وَالْمَشَّجُ - مخلوط ج مَشَّجٌ - المَشَّجُ - میل کھیل جو ناف میں جمع ہو جائے۔

أَمَشَّحَتِ السَّمَاءُ - بادل کا کھل جانا - السَّنَةُ - خشک سال ہونا۔

مَشَّرَ (ن) مَشَّرَ الشَّيْءُ - ظاہر کرنا۔
مَشَّرَ (س) مَشَّرًا - اِثْرًا - اِثْرًا بَازٍ ہونا - مَشَّرَ وَمَشَّرَ وَأَمَشَّرَ وَتَمَشَّرَ الشَّجَرُ - شامیں نکلتا مَشَّرَةٌ - پہانا - مَشَّرَ الشَّيْءُ - تعظیم کرنا - مَشَّرَ الرَّجُلُ کھل کر دوڑنا - يَدَّتُهُ - بدن کا پھولنا - الْأَرْضُ - سبزی اگانا - وَتَمَشَّرَ الرَّجُلُ - مستغنی ہونا یا دولت کا اثر ظاہر ہونا - تَمَشَّرَ لِأَهْلِهِ شَيْئًا - کہاں کرنا یا اپنے اہل کے لیے لباس خریدنا - الشَّجَرُ - سرسبز ہونا - القَوْمُ -

کپڑے پہننا۔

إِمْتَشَرَ الزَّاعِمِي وَرَقَ الشَّجَرِ: چرواہے کا کلاڑی سے درخت کے پتوں کو کھینچنا۔

المَشْرُومِنَ الرَّجَالِ: سخت سرخ مرو۔

المَشْرُ: نشان۔ کہا جاتا ہے "أَذْهَبَ مَشْرًا" یعنی اس نے اس کو گالی دی۔ جو کبھی یا گالی سنوائی۔

المَشْرُوة: نئی نکل ہوئی نرم سبز نشی۔ نیا نکلا ہوا پتا کلاڑی سے جھکانے ہوئے پتے "نئی نئی نکل ہوئی گھاس اور کہا جاتا ہے "عَلَيْهِ مَشْرُوةٌ غَنِي" یعنی

اس کے اوپر دولت مند کی کاثر ہے۔

مَشْرُوةٌ الْأَرْضِ وَمَشْرُوتُهَا: سبزی یا نئی نکل ہوئی سبزی۔

أَرْضٌ مَاشِرَةٌ: بارش سے سیراب اور سبزی نکل ہوئی زمین۔

الْأَمَشْرُ: جست و چالاک۔

الْمَوْشُورُ: دیکھنے وارہ و ش۔

مَشَطٌ (ض ن) مَشَطًا وَمَشَطَ الشَّعْرَ بِلَوْنٍ مِثْلِ كَلْبِي كَرَا: مَشَطَ الشَّيْءَ: بلانا — البعير: اُونٹ پر کھنسی جیسے آلہ سے داغ لگانا۔

مَشِطَتِ (س) مَشَطًا يَذُهُ: کام کرنے سے کھرورا ہونا یا پھانس چھنا (— وَمَشِطَتِ) الثَّقَافَةُ: دونوں پہلوؤں میں کھنسی جیسی چہلی چھنا۔

إِمْتَشَطَ: کھنسی کیا ہوا ہوتا۔ إِمْتَشَطَتِ الشَّعْرَ: کھنسی کرنا۔

المِشَطُ والمِشَطُ والمِشَطُ والمِشَطُ والمِشَطُ: کھنسی ج اَمَشَاطٍ و مَشَاطٍ

المِشَطُ: کپڑا بننے کا ایک آلہ جو کھنسی کے مانند ہوتا ہے۔ اُونٹ کے بدن پر داغ کرنے کا کھنسی کے مانند آلہ۔ پست قدم کی پٹی پہلی ہڈیاں اور کبھی پورے قدم پر اطلاق ہوتا ہے۔

والمِشَطُ اِيكٌ دَرِيائِيٌّ كَهَلِيٍّ جِسٌّ كَوْمَلَطِيٌّ كَمِي كَتَمِي: مِشَطَةٌ: مَشَطًا كَأَسْمِ نَوْرٍ

المِشَاظَةُ: مَشَاظَةُ غَرِي: المِشَاظَةُ: کھنسی کرنے میں گرے ہوئے

بل۔

المَشَاطُ: شانہ ساز۔

المَاشِطَةُ والمَشَاظَةُ: کھنسی کرنے کا پیشہ کرنے والی۔

المَشِيطُ: کھنسی کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے "شَعْرٌ مَشِيطٌ وَلَمَّةٌ مَشِيطٌ" کھنسی کے ہوئے بال۔

کھنسی کی ہوئی زلف۔ المِمْشَطُ: کھنسی۔

المَمَشُوطُ: مغم۔ وَجَلٌ مَمَشُوطٌ: پتلا و لمبا مرد۔

مَشِيطٌ (س) مَشَطًا وَمَشَطًا: پھانس چھنا۔ کہا جاتا ہے مَشِطَتٌ يَدُهُ: یعنی اس کے ہاتھ میں پھانس چھہ گئی۔ مَشِطَتِ الدَّابَّةُ: گوشت سے نمایاں پنوں والا ہونا۔

مَشَطٌ (ن) مَشَطًا: البَلَدُ: شہر کو اقامت کے لیے پسند کرنا — فَلَانًا: کچھ لے لینا۔

المَشَطُ والمِشَطَةُ: پھانس۔ کانا جو ہاتھ میں چبھ جائے۔ کلاڑی کو مضبوط کرنے کا پیچ۔

المَشْطَلَةُ: مَشَطًا كَأَسْمِ مَرَةٍ — مِنَ الْأَخْبَارِ: محلی خبریں جن کی تحقیق نہ ہو۔

قَنَاقَةٌ مَشِطَةٌ: نیا سخت نیزہ کہ جو لے اسی کا ہاتھ چھل جائے۔

مَشَعٌ (ف) مَشَعًا الشَّيْءَ: کانا۔ اُجْكٌ لِيْنَا — القَطَنُ: روٹی تو مٹا — القَنَمُ: بکری دوہنا —

بِنُوْلِهِ: پیشاب کرنا — فَلَانًا بِالْحَيْلِ وَغَيْرِهِ: رسی وغیرہ سے مارنا — الرَّجُلُ: آہستہ چلنا۔

مَشَعٌ الشَّيْءَ: صاف کرنا۔ پونچھنا — القِصْفَةُ: ہالہ میں سے سب کھالینا۔

إِمْتَشَعَ نُؤُوبٌ صَاحِبِهِ: چھین لینا۔

مَا فِي الضَّرْعِ أَوْ مَدَاهِي يَدِ فَلَانٍ: سب دودھ دوہنا یا سب کچھ ہاتھ سے لے لینا۔ الشَّيْفُ: جلدی سے سوتنا (— وَمَشَعَ الرَّجُلُ: اپنے آپ سے گدگی کو دور کرنا۔ پتھر سے استخار کرنا۔

المِشْعَةُ والمِشْعَةُ: توی ہوئی روٹی کا ٹکڑا۔ المَشْفُوعُ: بت کبالی کرنے والا — ذَنْبٌ مَشْفُوعٌ: بت اچکنے والا بھیڑیا۔

مَشَعَهُ (ف) مَشَعًا: مارنا۔ عِيبٌ لَكَانَ — الرَّجُلُ: کلاڑی وغیرہ آہستہ آہستہ کھانا۔

مَشَعٌ النَّوْبُ: گبرو سے رنگنا — عِزْضٌ

فَلَانٍ: آبرو میں داغ لگانا۔

المِشْعُ: گبرو۔

المِشْعَةُ: بوسیدہ کپڑے کا ٹکڑا۔

مَشَقٌ (ن) مَشَقًا: جلدی نیزہ مارنا۔ جلدی کام کرنا — هُ بِالسُّوْبِ: کوزے سے مارنا۔

الشَّعْرُ: بالوں میں کھنسی کرنا — الكِتَانُ وَنَحْوُهُ: رانچھ میں ڈال کر خراب و روری حصہ کو علیحدہ کرنا۔ الشَّيْءُ: دروازے کے لیے کھینچنا —

النُّوْبُ: کپڑے کو کلوے کلوے کرنا — الثَّقَافَةُ: اُونٹنی کو تھوڑا سا دوہنا — فِي الكِتَابَةِ: بڑے بڑے حروف لکھنا۔ لکھنے میں جلدی کرنا اور کہا جاتا ہے "مَشَقُوا إِزْجِيْلَهُمْ" یعنی انہوں نے کوچ کرنے میں جلدی کی۔

مِشَقٌ مَشَقًا: پتلا و لمبا ہونا۔ دِلاؤ ر کم گوشت والا ہونا۔ صَفْتٌ مَشِيقٌ وَمَشِيقٌ وَمَشِيقٌ: مَشِيقٌ (س) مَشَقًا: رانوں کی رگڑ سے سوزش ہونا۔ صَفْتٌ مَشِيقٌ وَأَمَشِيقٌ اور اَسْمُ المِشْقَةِ: مَاشِقَةٌ مَاشِقَةٌ: گالی گونچ کرنا۔ جھنکارنا۔

مَاشِقَةُ الشَّيْءِ: کسی سے چیز کو کھینچنا۔

أَمَشِقَةُ السُّوْبِ: کوڑا مارنا أَمَشِقُ النَّوْبُ: گبرو سے رنگنا۔

مَشَقٌ مَشِيقًا إِلَّا بِلِ الكَلَا: اُونٹ کو گھاس چرانا۔

تَمَشَقُ النَّوْبُ: کپڑے کا پھینا۔ کلوے کلوے ہونا — الفِضُّ: شنی کا چھلنا — اللِيْلُ: رات کا ختم ہونا۔

إِمْتَشَقٌ: چھین لینا۔ اُجْكٌ لِيْنَا — مَا فِي الضَّرْعِ: سارا دودھ دوہنا — الشَّيْفُ: کوار سوتنا — فِي الشَّيْءِ: داخل ہونا — الكِتَانُ: رانچھ میں ڈال کر خراب و روری حصہ کو علیحدہ کرنا — الشَّيْءُ: اپنے لیے لینا — مَا فِي يَدِ الرَّجُلِ: سارالے لینا۔

المَشَقُ: مہ۔ گبرو۔ اور کہا جاتا ہے "فِي قَدِهِ مَشَقٌ" اس کے قدم میں لمبائی اور پتلا پن ہے۔

المِشْقَةُ والمِشَاظَةُ: رانچھ کا نکلا ہوا خراب و روری حصہ۔ المِشْقَةُ: روٹی کا کالا۔ پراٹا کپڑا ج مَشَقٌ

المِشْقَةُ: نئے کپڑے کی داغی۔

مَشَقٌ مَشِيقًا إِلَّا بِلِ الكَلَا: اُونٹ کو گھاس چرانا۔

تَمَشَقُ النَّوْبُ: کپڑے کا پھینا۔ کلوے کلوے ہونا — الفِضُّ: شنی کا چھلنا — اللِيْلُ: رات کا ختم ہونا۔

إِمْتَشَقٌ: چھین لینا۔ اُجْكٌ لِيْنَا — مَا فِي الضَّرْعِ: سارا دودھ دوہنا — الشَّيْفُ: کوار سوتنا — فِي الشَّيْءِ: داخل ہونا — الكِتَانُ: رانچھ میں ڈال کر خراب و روری حصہ کو علیحدہ کرنا — الشَّيْءُ: اپنے لیے لینا — مَا فِي يَدِ الرَّجُلِ: سارالے لینا۔

المَشَقُ: مہ۔ گبرو۔ اور کہا جاتا ہے "فِي قَدِهِ مَشَقٌ" اس کے قدم میں لمبائی اور پتلا پن ہے۔

المِشْقَةُ والمِشَاظَةُ: رانچھ کا نکلا ہوا خراب و روری حصہ۔ المِشْقَةُ: روٹی کا کالا۔ پراٹا کپڑا ج مَشَقٌ

المِشْقَةُ: نئے کپڑے کی داغی۔

المشئی۔ پتا ہوا کپڑا — مِنَ الْغَبِيلِ ذُبَابًا
گھوڑا۔

المشاق۔ فاج مشیق۔
قَلَمٌ مَشَاقٌ۔ تیز چلنے والا قلم۔
نَوْبٌ مَشَقٌ وَمَشَقٌ وَأَمَشَاقٌ۔ گیسو سے
رنگا ہوا کپڑا۔
المَشَقَّةُ۔ مَشَقٌ کلاسم مرہ۔ جانور کی ٹانگ میں
رستی کا نشان۔

المَشْمُوقُ۔ بھگے کم گوشت کا مرہ۔
مِنَ الْغَبِيلِ۔ ذُبَابًا گھوڑا — مِنَ الْقَضْبَانِ۔ بٹلی
کی شاخ۔ کہا جاتا ہے "قَدْ مَشْمُوقٌ" لہذا پتا۔
مَوْتٌ مَشْمُوقَةٌ۔
التَّمَاشِقُ۔ جھگڑا۔

المَشْمُوقَةُ۔ رانچہ۔ کتان وغیرہ کو صاف کرنے
کا کٹھن کے مانند ایک آلہ۔ ج مَشَاقِيقُ۔
مَشَلٌ (ن) مَشُولًا لَعْمَةٌ۔ گوشت کم ہونا
— مَشَلًا اللَّبَنُ۔ دودھ کم دہنا (و —
إِمْتَشَلٌ الشَّيْفُ۔ کھوار سوختا۔

المَشَالُ والمَشْمُولُ۔ ذُبَابًا جھگڑا۔ کم گوشت۔
المَشَلُ کم دوہا ہل۔

المَشْمَلُ۔ نرمی سے دوہنے والا۔
المِشْلُوذُ۔ میٹھی سمیٹھی کا زرد آلو (یہ کلمہ
میشمش اور لوڈ سے مرکب ہے)
المِشْمِشُ۔ زرد آلو واحد و مشمشة۔

مَشَنَةٌ (ض) مَشَنًا۔ خراش لگانا۔ مَشَنَةٌ
بِالسُّوْطِ۔ کوڑا مارنا — هُـ بِالشَّيْفِ۔ کھوار مار
کر کھال چھیننا۔ مَشَنُ الْجَوَارِيَةِ۔ جماع کرنا —
وإِمْتَشَنُ الثَّقَافَةِ۔ سارا دودھ دوہنا۔ صفت
مَاشِنُ۔ ج مَشَنٌ۔ وَاِمْتَشَنُ الشَّيْفِ۔ کھوار
سوختا — الشَّيْفُ۔ اُجک کر اپنے لئے لے لینا
— فَوَيْبَةٌ کپڑا پھین لینا۔

مَشَنَتِ الثَّقَافَةَ۔ اونٹنی کا بکے ہوئے دودھ
دینا۔ کہا جاتا ہے "فَمَاشَنًا جِلْدَ الطَّرِيَانِ"
بدترین قسم کی آپس میں گالی گلوچ کرنا۔

المِشَانُ والمِشَانُ۔ ایک قسم کی کھجور یا عمدہ
کھجور۔

إِسْتَمَشَى الرَّجُلُ۔ مسسل دوہنا۔ اور کہا جاتا
ہے "إِسْتَمَشَى بِكَذَا" جبکہ کوئی شخص مسسل

المَشْوُ والمَشْوُ والمَشِيُّ والمَشَاءُ۔ دست
آوردہ۔

مَشَى (ض) مَشَيْتًا وَمَشَاءً۔ چلنا۔ بہت موٹی
والا ہونا — زَيْدٌ۔ ہدایت پانا اور اسم المَشْيَةِ)
— مَشَاءَةُ الْمَرْأَةِ أو المَاشِيَةُ۔ بہت نیچوں والی
ہونا — بِالثَّمِيمَةِ۔ چغل خوری کرنا۔ بظَنَّةُ۔
پہنٹ چلنا۔

مَشَى مَشِيَةً۔ چلنا — الرَّجُلُ۔ چلانا۔
أَمَشَى الرَّجُلُ۔ چلانا۔ أَمَشَاءُ الدَّوَاءِ۔ دست
لانا (و إِمْتَشَى) بہت موٹی کے نیچوں والا ہونا۔
مَاشَاءَةٌ مَاشَاءَةٌ۔ ساتھ چلنا۔

مَشَى۔ چلنا۔
فَمَاشَيْتًا۔ پام مل کے چلنا۔
المَشْيَةُ۔ چال۔

المَشْيَةُ۔ ارادہ۔ خواہش۔
المَاشِيُ۔ فاج مَشَاقِيقُ مَاشُونُ۔ چوپائے والا۔
المُشَاةُ۔ چٹلی کمانے والے — مِنَ الْعُسْكَرِ۔
پیدل دست۔

المَاشِيَةُ۔ مَاشِيٌ کاسوٹ۔ موٹی۔ ج مَاشِيٌ۔
المَشَاءُ۔ بہت چلنے والا۔ چغل خور۔
المَشْمَشِيُّ۔ چلنے کی جگہ۔ ظلام گردش ج
مَاشِشُ۔

مَضُ۔ (س ن) مَضًا و تَمَضُّصٌ و إِمْتَضُّصٌ
چوسنا۔
أَمَضُ اللَّبَنُ۔ چوسانا۔

المَضُّصُ۔ مِمَّ۔ قَضَبُ المَضِّ۔ گنا۔
المَضَّةُ والمَضَّاصُ مِنَ الشَّيْءِ۔ خالص۔ کہا
جاتا ہے "فَلَبَّانُ كَرَيْمُ المَضَّاصِ" و "هُوَ
مَضَّاصٌ قَوِيٌّ" جبکہ لب کے لحاظ سے خالص
ہو۔ اور اس میں واحد تنزیہ جمع مذکر مؤنث سب
برابر ہیں۔

المَضَّاصَةُ۔ جو چیز چوسی جائے۔
المَضَّاصُ۔ بہت چوسنے والا۔ بچنے لگانے والا۔
المَضَّانُ۔ کینہ۔ کینگی کی وجہ سے بھیڑ بکری
کے تھن میں منہ لگا کر چوسنے والا۔ اور گال کے
موقع پر مرو کے لیے یا مَضَّانُ اور عورت کے لیے
یا مَضَّانَةٌ کہا جاتا ہے۔ المَضَّانُ۔ بچنے لگانے والا۔

المَضَّانُ۔ گنا۔
المَضَّوْصُ۔ بختہ گوشت جو سرکہ میں ڈالا
جائے۔

المَضْبِيَّةُ۔ پیالہ۔
مَضْبِيضُ الثَّرَى۔ نمناک مٹی یا ریت۔
المِمْصُ۔ چوسنے کا آلہ۔
مَضَّتْ (ن) مَضَّتًا الجَوَارِيَةَ۔ جماع کرنا۔
الثَّقَافَةُ۔ ہاتھ ڈال کر بچھڑانی کو صاف کرنا۔

مَضَّحٌ (ف) مَضَّحًا و مَضَّوْحًا الشَّيْءُ۔ جاتا
رہنا۔ مَقْطَعٌ ہونا — بِالشَّيْءِ۔ لے جانا۔
مَضَّحَتِ الدَّاءُ۔ گھر کا نشان مٹ جانا۔ مَضَّحُ
الثَّقُوبِ۔ کپڑے کا پرانا ہونا — الثَّبَاتُ۔
نبات کا مرجحنا — الكِتَابُ۔ کتب کا گٹھیا

مٹنے کے قریب ہونا — اللَّبَنُ الثَّقَافَةُ۔ اونٹنی کے
دودھ کا قخم ہونا (مَضَّحٌ (ف) و مَضَّحٌ (س)
مَضَّحًا القَطْلُ۔ کم یا ننگ ہونا۔ صفت أَمَضَّحُ۔
مَضَّحٌ و مَضَّحٌ و أَمَضَّحُ اللُّهُ مَزَّحُكٌ۔
صحت دینا۔ مرض کو زائل کرنا۔

المَضَّاحَاتُ۔ اونٹنی کے نیچوں کی کھالیں جن
میں کچھ بھر کر اونٹنی کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں
تاکہ وہ سمجھے کہ اپنا پیچ کھڑا ہے۔

مَضَّحٌ (ف) مَضَّحًا الشَّيْءُ۔ بچھڑانا۔
تَمَضَّحٌ و إِمْتَضَّحٌ الشَّيْءُ۔ بچھڑ کر نکالنا۔
وإِمْتَضَّحٌ الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ۔ جدا ہونا۔
إِمْتَضَّحٌ التَّوَلَّدُ۔ ماں کے پیٹ سے جدا ہونا۔

الأَمَضُّوْحَةُ بَرْدِيٌّ کاسفید گودا۔ ٹھام اور نعنی
کے پتے ج مَضَّوْحٌ و أَمَاصِيْحٌ (بردی) ٹھام
اور نعنی یہ سب نباتات کی تسمیہ ہیں)

المَضَّوْحَةُ۔ بکری جس کے تھن کی بڑھ چلی
پڑ گئی ہو۔

المَضَّاحُ۔ ایک قسم کی نباتات جس کے چھلکے
پاجاز کے مانند ہوتے ہیں۔

مَضَّدٌ (ن) مَضَّدًا الشَّيْءُ لَذِي أَمِيهِ۔ بچنے کا
ماں کے پستان کو چوسنا — الشَّيْءُ۔ چوسنا۔
الرَّجُلُ۔ مطبخ و فرمانبردار کرنا۔

المَضَّادُ بِلَدٍ پشہ۔ پہاڑ کی چوٹی ج مَضَّادَةٌ و
مَضَّدَانُ۔

المَضَّدُو المَضَّدُ۔ گرمی کی شدت۔ سردی کی

زیادتی بادل کی گرج۔ بارش۔ بلند پستہ۔
المصعدة۔ بارش۔

مَصْرٌ (ن) مَصْرًا۔ الثَّاقَةُ: اونٹنی کو اگلیوں کے اطراف سے دوہنا۔

مَصْرٌ الْعَطِيَّةُ: بند کر دینا یا تھوڑا تھوڑا دینا
مَصْرٌ وَالْمَكَانُ: شہر بنانا۔ الثَّوْبُ: گیرو سے رنگنا۔

تَمَصَّرَ الْمَكَانُ: شہر ہونا۔ الشَّيْءُ او العَطَاءُ: کم ہونا۔ الْقَوْمُ: پراگندہ ہونا۔ الشَّيْءُ: چھپا کرنا۔ مَخَاشَ كَرْنَا (وَامْتَصَّرَ) الثَّاقَةُ: اونٹنی کو اگلیوں کے اطراف سے دوہنا۔

الْمَصَابِرُ: قا۔ دو چیزوں کے درمیان روک نا قَاةٌ اَوْ شَاةٌ مَصَابِرٌ: کم دودھ والی اونٹنی یا بکری یا وہ جس کا دودھ دیر میں نکلے۔

الْبِضْرُ: دو چیزوں کے درمیان روک۔ دو ملکوں کے درمیان کی سرحد۔ شہر۔ گوشہ۔ ج۔ اَمَصَارٌ و مَصُورٌ و مِصْرٌ: ملک مصر۔ المِصْرَانُ: کوفہ و بصرہ۔

المِصْرِيُّ: منسوب الی مِصْرٍ۔ مہر کار بننے والا۔ مَوْتٌ مِصْرِيَّةٌ ج مِصَارٌ و مِصَارِيٌّ: کہا جاتا ہے حُمُورٌ مِصَارٌ و مِصَارِيٌّ۔

المِصُورُ مِنَ الْاِبِلِ او الشَّاءِ: وہ اونٹنی یا بکری جس کا دودھ دیر میں نکلے۔ ج مِصَارٌ و مِصَارِيٌّ و عِظَاءٌ مِصُورٌ: تھوڑا عطیہ۔

المِصِينُ: آنت۔ ج اَمِصْرَةٌ و مُصْرَانُ: ج مِصَارِيْنُ۔

المِمْصَرُ: گیرو سے رنگنا ہوا۔
المِمْصَرَةُ: المِمْصَرُ کا مؤنث۔ کتے ہوئے سوت کا گولا۔

مِصْطَلِكُ الدَّوَاءِ: دوا میں مصطلک ملانا۔
المِصْطَلِكِيُّ و المِصْطَلِكِيُّ و المِصْطَلَكَاءُ: مصطلک۔ ایک مشہور دوا کا نام ہے (دخبل)
مِصْعٌ (ف) مِصْعًا المِزْقِيُّ: بجلی کا چمکتا۔

الدَّابَّةُ بِذَنْبِهَا: چوپایہ کا دم ہلانا۔ فَلَانًا: کوڑا وغیرہ مارنا۔ الفَرْشُ: آہستہ سے گزرتا۔ الظَّائِرُ بِذَوْقِهِ: پرندہ کا بیت کرنا۔ المَرْوَةُ بِالْوَالِدِ: بچہ کر دینا۔ فُؤَادُ فَلَانٍ: جلد بازی یا خوف سے دل کا پراگندہ ہونا۔ هُ: ملنا)۔

مُصُوْعًا) لَبِنٌ الثَّاقَةُ: اونٹنی کے دودھ کم ہونا یا سوکھ جانا۔ ناز کی صفت مَاصِعٌ و مَاصِعَةٌ۔ ماءٌ النُّحُوْضِ: حوض کا پانی کم ہونا۔ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ: جانا۔ ستر کرنا۔

أَمْصَعُ الظَّائِرُ بِذَوْقِهِ: پرندہ کا بیت کرنا۔
القَوْمُ سَجٌّ: درخت عوج کا پھل لگانا۔
المَرْوَةُ وَوَلَدُهَا: تھوڑا دودھ پلانا و اَمْصَعَتْ بِهِ:

بچہ کر دینا۔ الْقَوْمُ: بے دودھ والی اونٹنیوں والا ہونا۔ فَلَانٌ بِحَقِيْقَةٍ: اقرار کرنا۔

مِصْعٌ القَضِيْبُ: جھال کو خمی پر خشک ہونے کے لیے چھوڑ دینا۔

مَاصِعٌ مِصَاعًا و مِصَاعَةٌ: جنگ کرنا۔
مُقَاتَلَةٌ كَرْنَا۔ قَوْمَةٌ: کھوار وغیرہ سے مارنا۔
يَلِيْسَانِيَه: سمت لگانا۔

تَمَاصَعُ الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ: باہم جنگ کرنا۔
اِنْمِصَعُ و اِمْتِصَعُ فِي الْأَرْضِ: جانا۔ ستر کرنا۔
اِنْمِصَعُ الْحِجَاازِ: گھڑے گا لکان کھڑے کرنا۔

المِصْعُ: مہ۔ ہاتھنا۔ پھینکا جانا۔

المِصْعَةُ و المِصْعَةُ: ایک چھوٹا پرندہ۔ عوج درخت کا پھل۔ ج مِصْعٌ و مِصْعٌ۔

المِصَاعِ: قا۔ کھاری پانی۔ کم۔ گدلا۔ چمکیلا۔ پست پھیرنے والا۔ مَوْتٌ مِصَاعَةٌ۔

المِصْعُ: کھوار باز۔ لڑکا جو بچے ہوئے کپڑوں سے کھیل رہا ہو۔

المِصْعُوعُ: خوفزدہ مرد۔
مِصْعَلٌ (ن) مِصْعَلًا اللَّبِنُ: پانی نینکے کے لیے کپڑے میں لٹکانا۔ مَالَةٌ: مال کو لغویات میں

خرچ کرنا مِصْعَلًا و مِصْعَلًا) النَّجِيْنُ و نَحْوُهُ نِيْنًا۔
الجُرْحُ: زخم کارنا۔

أَمِصَّلٌ مَالَةٌ: مال تباہ کرنا۔ لغویات میں خرچ کرنا۔
القَمَمُ: سارا دودھ دوہ لینا۔
أَمِصَّلَتِ الْمَرْوَةُ: ناتمام بچہ گر دینا۔ صف مُنْصِلٌ۔

المِصْلُ: مہ۔ (۔ و المِصَالَةُ و المِصَالَةُ) مِنَ اللَّبَنِ و نَحْوِهِ: دودھ وغیرہ سے نپکا ہوا پانی المِصَالَةُ: ٹھمپایا نکلنے سے جو نپکے۔

المِصَالُ: قا۔ تھوڑا دودھ یا تھوڑا عطیہ۔
المِصَالَاءُ: باریک بازوؤں والی عورت۔

المِصْمَلُ: دودھ وغیرہ سے پانی نپکانے کا برتن۔ لغویات میں مال تباہ کرنے والا۔

مِصْمَصُ الْمَاءِ: زبان کے کنارے سے حرکت دینا۔ الثَّوْبُ: کپڑا دھونا۔ صاف کرنا۔

المِصْمِصُ: ہرج ہرج کا خالص۔ کہا جاتا ہے "اِنَّهُ لَمِصْمِصٌ لِيْنِ قَوْمِيَه": وہ اپنی قوم میں خالص النسب ہے۔

مِصٌّ (س ن) مِصًّا و مِصِيْبًا الجُرْحُ فَلَانًا: دردمند کرنا۔ تکلیف پہنچانا۔ الكَحْلُ العَيْنِ بِجِدَّتِهِ: سرمہ کا آگھ میں جلن پیدا کرنا۔ الخَلُّ فَاةٌ: سرکہ کا لٹھ کو جلا دینا۔ الشَّيْءُ فَلَانًا: تکلیف دہ غم میں مبتلا کرنا)۔ مِصًّا) الشَّيْءُ: چوستا۔

مِصٌّ (س) مِصْمِصًا مِنَ الشَّيْءِ: دردمند ہونا۔

(۔ مِصْمِصًا و مِصْمِصَةً و مِصِيْبًا) مصیبت کے دکھ سے دردمند ہوا۔

أَمِصَّةُ الْأَمْرِ: دردمند کرنا۔ جلن پیدا کر دینا۔
أَمِصَّةُ الجُرْحِ و نَحْوُهُ: دردمند کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَمِصْنِي كَلَامَ فَلَانٍ" فلاں کی جھنگل سے مجھ کو تکلیف پہنچائی "أَمِصَّةٌ جِلْدَةٌ" اس کی کھال کھجائی۔

مَاصَةٌ مِصَاعًا: لعنت ملامت کرنا۔

مِصْمِصٌ مِصْمِصًا: بہت کھاری پانی پینا۔ کھٹا دودھ پینا۔

تَمَاصَعُ الْقَوْمُ: باہم جھگڑا کرنا۔
المِصُّ: مہ۔ کُحْلٌ مِصٌّ: تیز جلن پیدا کرنے والا سرمہ۔ رَجُلٌ مِصٌّ الضَّرْبُ: تکلیف دہ ماریٹ والا مرد۔

المِصُّ: ہونٹوں سے نہیں کے مانند کلمہ نکالنا اور کچھ امید بھی دلانا۔

مِصٌّ و مِصٌّ و مِصٌّ مِصِيْبٌ و مِصٌّ مِصٌّ مِصْمِصٌ: کلمہ ہے جو لائے کے معنی میں مستعمل ہے مگر اس کے ساتھ کچھ امید بھی ہو۔

المِصَّةُ اسم مرة۔ مَوْتٌ المِصُّ: امْرَأَةٌ مِصَّةٌ: عورت جو کسی کمرہ مصیبت کو برداشت نہ کر کے البان مِصَّةً: کٹھے دودھ۔

المِصْمِصُ: مہ۔ مصیبت کی تکلیف۔ کھٹا دودھ۔

المَضْمَان - جلن۔
 المَضْمَان - خالص۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مِنْ مَضْمَانِ الْقَوْمِ" فلاں قوم کا خالص ہے۔ بہت کھاری پانی جو بیاناہ جاسکے۔ آگہ کی جلن۔
 المَضْمَان - جلانے والا۔
 مَضَحَ (ف) مَضَحًا وَ أَمْضَحَ عِزَّةً : عیب لگانا۔ مَضَحَ عَنْهُ : دفع کرنا — الشَّمْسُ : شعاع پھیلانا — الإِبِلُ : اونٹوں کا منتشر ہونا — المِزَادَةُ : برتا۔
 مَضِدٌ (س) مَضِدًا : کینہ رکھنا۔
 مَضُوٌّ (ن) او مَضْرُوكٌ (ک) او مَضْرُوسٌ (س) مَضْرُوسًا و مَضْرُوسًا او مَضْرُوسًا التَّبِيدُ او اللَّبْنُ : نیبیزاودودھ کا کھنا ہونا۔
 مَضْرُوءٌ قَبِيلٌ مَضْرُوكٌ مَضْرُوكٌ : طرف نسبت کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "مَضْرُوءٌ لِلَّهِ لَهُ النَّعَاءُ" اللہ نے اس کی تعریف اچھی بنائی۔ مَضْرُوءٌ مَضْرُوكٌ : ہلاک کرنا۔
 مَضْرُوءٌ قَبِيلٌ مَضْرُوكٌ : طرف منسوب یا اس کے مشابہ ہونا۔ قبیلہ مضر کی جبہ داری کرنا۔
 مَضْرُوبٌ الْمَاشِيَةُ : جانور کا موٹا ہونا۔
 لَبِنٌ مَضْرُوءٌ وَ مَاضِرٌ وَ مَضِيٌّ : کھادودھ۔ و عَيْشٌ مَضْرُوءٌ : آسودہ زندگی اور کہا جاتا ہے "ذَهَبَ دَمُهُ خَضِرًا مَضْرُوءًا او خَضِرًا مَضْرُوءًا" یعنی اس کا خون رایگاں گیا۔ "أَخَذَهُ خَضِرًا مَضْرُوءًا وَ خَضِرًا مَضْرُوءًا" یعنی اس نے اس کو تروتازہ لیا یا بلا قیمت لیا۔
 المَضْرُوءَةُ : ایک قسم کا کھانا جو کھئے دودھ سے تیار کیا جاتا ہے۔
 المَضْرُوءَةُ مِنَ اللَّبَنِ : کھئے دودھ کا پانی۔
 مَضَعٌ (ف) مَضَعًا الطَّعَامُ : چبانا۔
 مَاضِعَةٌ الْفِتَالُ او الْخُصُومَةُ : در تک لڑنا یا جھگڑنا۔
 أَمْضَعُهُ وَ مَضَعُهُ : چبوانا۔ أَمْضَعُ الشَّمْرُ : پھل چبانے کے قابل ہونا۔ أَمْضَعُ اللَّحْمُ : گوشت کا لذیذ ہونا اور کھایا جانا۔
 المَضَاعُ : چبانا — وَ المَضَاعَةُ : جو چیز چبائی جائے۔ کہا جاتا ہے "مَا عِنْدَنَا مَضَاعٌ" ہمارے پاس چبانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ المَضَاعَةُ : چباتے چباتے آخر میں جو مت میں باقی رہ جائے۔

المَاضِغُ - فَا - ج مَضَّغٌ -
 المَضَّغَةُ : گوشت وغیرہ کا ٹکڑا۔ ج مَضَّغٌ وَ مَضَّغٌ الأَمْزُورِ وَ الجِرَاحَاتِ : معمولی اور چھوٹے چھوٹے کام۔
 المَضَّيغَةُ : ہڈی — لگا ہوا گوشت۔ جِزْرًا - عَضَلٌ - ج مَضَّغٌ وَ مَضَّائِغٌ -
 المَضَّاعَةُ : بیوقوف۔ بہت چبانے والا۔
 المَاضِغَانُ وَ المَاضِغَتَانُ : دونوں جڑے۔
 المَوَاضِغُ : ڈاڑھیں۔
 مَضْمُضٌ مَضْمُضَةٌ وَ مَضْمَاضًا وَ مَضْمَاضًا المَاءِ فِي فِيهِ : پانی کو منہ میں پھرانا — الثَّوْبُ وَ عَيْتُهُ : دھونا — وَ تَمَضْمُضٌ الثَّمَّاسُ فِي عَيْتِيهِ : وہ گدگد کا اثر اکھوں میں ہونا۔
 تَمَضْمُضٌ الكَلْبُ فِي أُتْرِهِ : کسی کے پیچھے کتے کا بھونکنا۔
 المِضْمَاضُ : جلن۔ ہلکا پھلکا مرد۔ نیند۔
 المِضْمُضَةُ : سانس وغیرہ کی آواز۔ کلی۔
 مَضِيٌّ مَضِيٌّ وَ مَضِيٌّ مَضِيٌّ وَ مَضِيٌّ مَضِيٌّ : الشَّيْءُ : گزر جانا — مَضِيٌّ سَبِيلُهُ وَ لَيْسَ بِسَبِيلِهِ : مرنا۔
 مَضِيٌّ مَضِيٌّ وَ مَضِيٌّ مَضِيٌّ وَ مَضِيٌّ مَضِيٌّ : الأَمْزُورُ : مدامت کرنا۔ جاری کرنا اور پورا کرنا۔ جس امر کو پورا کیا جائے اس کو مَضْمُضٌ عَلَيهِ کہتے ہیں۔ عَلَي التَّبِيْعِ : بیج کو جاڑ کر کھنا۔ مَضِيٌّ مَضَاءُ الشَّيْفِ : کانا۔
 أَمْضَى أَمْضَاءُ الأَمْزُورِ : انجام کو پہنچانا۔ کہا جاتا ہے "أَمْضَى الحَاكِمِ حُكْمُهُ" حاکم نے اپنے فیصلہ کو نافذ کیا — التَّبِيْعُ : بیج کو جاڑ کر کھنا۔ اور اس سے ہے "أَمْضَاءُ الصُّكُوكِ وَ الرِّسَائِلِ" یعنی دستخط کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "أَمْضَيْتُ لَهُ" یعنی میں نے اس کو تھوڑی غلطی پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ انتہائی غلطی میں مبتلا ہو گیا پھر ایسے موقع پر اس کو سزا دی گئی کہ اس کے لیے کوئی مدد باقی نہ رہا۔
 مَضِيٌّ تَمَضِيَّةٌ الأَمْزُورُ : نافذ کرنا۔
 تَمَضَى الأَمْزُورُ : نافذ ہونا۔ پورا ہونا — الرِّجْلُ : آگے بڑھنا۔
 المَضْوَاءُ : آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے "مَضَى عَلَي مَضْوَأِيهِ" وہ اپنی پیش قدمی میں آگے رہا۔

تو اس نے سر جھکا لیا اور اس کی پیشانی پر ہیندہ آگیا۔ **أَمْطَرَ الْمَكَانَ** بارش شدہ جانا۔

مَطَرٌ (ن) مَطْرُوزًا و مَطْرُوسًا۔ **الْفَرْشُ**: گھوڑے کا تیز دوڑنا — **الْفَرْشَةُ**: مٹک کو بھرنا — **الْقَطْرِ**: پرندہ کا تیزی سے اترنا۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ وَلَا أَذْرَبِي مِنَ الْمَطَرِ بِهِ" وہ گیا اور میں نہیں جانتا کہ اس کو کس نے پکڑ لیا (— مَطْرُوزًا) **فِي الْأَرْضِ**: جانا — **الْعَبْدُ**: بھاگنا — **الشَّيْءُ**: بلند ہونا۔

تَمَطَّرَ: بارش کے سامنے ہونا۔ بارش طلب کرنا — **الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ**: جانا — **الْقَطْرِ**: پرندہ کا تیزی سے اترنا — یہ **فَرْشَةٌ**: لے کے تیز دوڑنا۔ **تَمَطَّرَتِ الْخَيْلُ**: گھوڑوں کا تیزی سے آنا اور سبقت کی کوشش کرنا۔

اسْتَمَطَّرَ اللَّهُ: بارش طلب کرنا — **الْمَكَانُ أَوْ الرَّوْغُ**: بارش کے قابل ہونا — **الرَّجُلُ**: بارش سے چھینا۔ خاموش رہنا — **لَوْيَةٌ**: برسائی پھینا۔ **اسْتَمَطَّرَ فَلَانًا مِنْ فَلَانٍ**: عنایت و کرم کی التجا کرنا — **اللسياط**: کوڑوں کے درپے ہونا اور صبر کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَا تَسْتَمَطِّرِ الْخَيْلُ" گھوڑوں کے درپے مت ہو۔

المطر: بارش جہاں **أمطار**۔
المطر: چینا کا خوشہ۔ عادت۔
المطر: بارش کی ایک بوجھاڑ (—
والمطررة والمطررة) عادت۔ **المطررة**: مٹک۔
حوض کلاط۔

المطار والمطاررة من الآبار: چوڑے منہ کا کنواں۔

المطار من الخيل: بہت تیز رفتار گھوڑا۔
المطر والمطر والمطر: بارش والا۔
المطر: جس پر بارش ہو۔

سحاب مطر: موسلا دھار برسنے والا بادل۔

المطر والمطررة: برسائی۔ عوام مشتہم کہتے ہیں۔

المطاطر: بادل جو تھوڑی دیر سے اور پھر رک جائے۔

المتمطر: تیز رفتار گھوڑا۔ تیز رفتار گھوڑے کا سوار۔ بارش کے بعد سیر کو نکلنے والا۔ کہا جاتا ہے "خَرَجَ مَتَمَطَّرًا" یعنی بارش کے بعد سیر کو چلا۔

المستمطر: نا۔ بارش کا شہر۔
المستمطر: سف۔ بارش کیلئے کھلا میدان۔

المطران والمطران: پاروں کا ایک بڑا عمدہ جہاز۔ **المطران**: پاروں کا ایک بڑا عمدہ جہاز۔ **المطران**: پاروں کا ایک بڑا عمدہ جہاز۔

مَطَرٌ (ن) مَطْرُوجًا: جمع کرنا۔
مَطَرٌ (ض) مَطْرُوجًا: یکبارگی پائین کرنا — **وَجْهَةٌ**: چہرہ پر تھامنا۔

مَطَعٌ (ف) مَطْعًا و **مَطْعًا** **عَالِي الْأَرْضِ**: جانا اور کم ہونا — **الشَّيْءُ**: اگلے دنوں سے کھانا۔

المطاع: نا۔ خالص۔ کہا جاتا ہے "بِإِصْحَابِ طَاعٍ نَاطِعٌ" خالص سفید۔

تَمَطَّقَ الطَّعَامَ: چکھنا — **الرَّجُلُ**: چکھنا۔ **تَمَطَّقَتِ الْقَرْسُ**: کمان کا بھینا۔

المطقة: مٹاس۔ کہا جاتا ہے "تَمَطَّقَتْ لَهُ مَقْلَةً" ان کے چھوڑنے میں مٹاس ہے کہ کھانے والے چکھنا۔

مَطَّلٌ (ن) مَطَّلًا **الْخَيْلُ**: رستی تاننا۔ **الْحَيْدِيَّةُ**: لوہے کو کوٹ کے بڑھانا۔ پگھلا کر چوڑا کرنا — **هُ حَقٌّ** و **بِحَقِّهِ**: ٹال مٹول کرنا —

الدَّيْنُ: قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا۔
إِمْتَقَلَهُ حَقَّهُ: ٹال مٹول کرنا۔ **إِمْتَقَلَتِ النَّبَاتُ**: لہا اور گھنجا ہونا۔

إِمْتَقَلَتِ الشَّيْءُ: دورا ہونا۔
المطللة والمطللة: حوض کی سطح سے پانی۔

المطللة: تھوڑا سا پانی وغیرہ جو مٹک سے گرے۔

المطالة: لوہے کے پگھلانے کا پیشہ۔
المطال: لوہے کو پگھلانے اور چوڑا کرنے والا۔

— **والمطال**: بہت ٹالنے والا۔
المطيلة: کوٹ پیٹ کے چوڑا کیا ہوا لہا۔
الممطل: چور۔ لوہار کا گھن۔

الممطلول: سف۔ لہا کیا ہوا۔ پھیلا ہوا۔ ٹالا ہوا۔
مَطْمَطٌ: گنگریا لکھنے میں سستی کرنا۔

تَمَطَّمَتِ الْمَاءُ: گاڑھا ہونا۔
مَطَايِمُ مَطْرًا: چلنے میں جلدی کرنا۔

بِالْقَوْمِ: دور تک چلانا۔

مَطِيٌّ: مَطِيٌّ **مَطَا**: پھیلانا اور لہا ہونا۔

أَمْطَى الدَّابَّةَ: جانور پر سوار ہونا۔ سوار بنانا۔
أَمْطَاهُ الدَّابَّةَ: سوار کرنا۔

أَمْطَى الدَّابَّةَ: سوار ہونا۔

تَمَطَّى: پھیلانا اور لہا ہونا — **الرَّجُلُ**: چلنے میں ہاتھوں کو پھیلانا اور اٹھرائی لینا۔

المطام: پیٹھ۔ تشبیہ **مَطْوَانِ** جہاں **المطام**۔
المطو والمطو: شاخ جس کو چیر کر گھاٹا بنا دیا جائے۔ جہاں **مَطَا** و **أَمْطَا** و **مَطِيٌّ**۔ **المطو**: ساتھی۔ نظیر **مَجْمُورٌ** کا پگھا۔ چینا کی بالی جہاں **مَطَا**۔

المطوأة: بیرون غلواۃ۔ **المطوأة**: لہائی۔
المطوأة: مطا کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے "مَضَّتْ مَطْوَةً مِنَ اللَّيْلِ" رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔

المطوية: سوار۔ **مُذْرَمُوتٌ** دونوں کے لیے ہے بھیر اور نفاق دونوں کو **مَطِيَّةٌ** کہتے ہیں۔ جہاں **مَطَا** و **مَطِيٌّ**۔

الأَمْطَى: سیدھے لہے قدر والا۔ ایک قسم کوئد کی جو کھایا جاتا ہے۔

مَطَّةٌ (ن) مَطَّالًا: مٹا مٹا کرنا۔
مَطَّطٌ و **مَطَّاطٌ** و **مَطَّاطَةٌ**: جھگڑا کرنا۔ گالی دینا۔
مَطَّاطُ الْخَصْمِ: جیسے رہنا۔

مَطَّطٌ: گالی دینا۔
مَطَّاطٌ: باہم جھگڑنا۔ باہم گالی گلوچ کرنا۔

المطط: سف۔ جنگلی اتار کا درخت۔ ایک قسم کے کوئد کا سرخ رنگ کا عصارہ۔

المططاة: سختی و بد مزاجی۔
مَطَّعٌ (ف) مَطَّعًا و **مَطَّعًا** **الْوَتْرُ**: تانت کو خشک اور چمکیلا کرنا۔

تَمَطَّعَ الْمَأْكُولُ: سب کا سب چاٹ جانا۔
— **الظَّلُّ**: سایہ ڈھونڈنے پھرنا — **فِي الرِّضِيِّ**: چرانے کے وقت سے دیر کرنا۔

المطعة: گھاس کا پتھر۔
المطعة: باقی ماندہ ٹنگو۔

مَعَ و **مَعَ** اسم ہے جو مضاف ہو کر مستعمل ہے اور **عَرَفَ** ہے اور اس وقت اس کے تین معانی ہوتے ہیں۔

(۱) اجتماع اور مصاحبت جیسے "اللَّهُ مَعَكُمْ" اور

أَفْعَلُ هَذَا مَعَ هَذَا.

(۲) وقت اجتماع، جیسے جُنْتُكَ مَعَ الْعَصْرِ.

(۳) ہمیں عین جیسے جُنْتُكَ مَعَ الْقَوْمِ اور

بلا مضاف ہوئے بھی مستعمل ہے اس وقت اس

پر تین آتی ہے اور حال واقع ہوتا ہے اور یہی

تشبیہ اور بیچ کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے "جَاءَ

زَيْدٌ وَعَمْرٌو مَعًا وَجُنَّتَا مَعًا" اور نسبت کے

لیے مَعِي اور اسی سے داومیت ہے۔

مَعَ (ن) مَعًا الشَّخْمُ: چربی کا پگھلنا۔

مَعَتَ (ف) مَعَتَا الشَّيْءِ: بلانا۔

مَعَج (ف) مَعَجَا الْقُرْسُ: نرمی کے ساتھ تیز

رفقار ہونا۔ صفت مَفُوج: مَعَجَجُ الْبَحْرِ: سمندر

کا موج مارنا — السَّيْلُ: سیلاب کا تیز ہونا —

بِالْقَلَمِ فِي الدَّوَاةِ: قلم کو روشنائی لگنے کیلئے

دوات میں بلانا — الفَصِيلُ ضَنْعُ عِاقِبِهِ: اونٹ

کے بچے کا دودھ اتارنے کے لیے ٹھن پر سر بارنا۔

اور کہا جاتا ہے "الرُّبُوحُ تَضَعُ فِي النَّبَاتِ" ہوا

پودوں کو ادھر ادھر کر رہی ہے — الْجَارِيَةُ:

جماع کرنا — الرَّجُلُ بَجَكِ كَرْنَا: تلوار مارنا۔

مُعَجِبَتِ النَّبَاتِ: لہلہانا۔

تَمَعَجَ السَّيْلُ أَوْ الْحَيْةُ: سیلاب یا سانپ کا

بل کھاتے ہوئے چلنا۔

المُفَجِّجُ: مع اضطراب۔ مقاتلہ۔ نرمی سے ہوا

کا چلنا۔

المُفَجِّجَةُ: مَفَجِجٌ كَأَسْمِ مَرَةٍ: جوانی کا آغاز۔ کہا

جاتا ہے "فَعَلَّ ذَلِكَ فِي مَفَجِّجَةِ شَبَابِهِ" اس

نے یہ اپنی جوانی کے شروع میں کیا۔

المَعَاجِجُ: اسم مبالغہ۔ جَمَاةٌ مَعَاجِجٌ: دوڑنے

میں اوہرا دھر ہونے والا گدھا۔

رَبِيعٌ مَفُوجٌ: تیز چلنے والی ہوا۔

فَرَسٌ وَمَفَعِجٌ: نرمی کے ساتھ تیز رفتار گھوڑا۔

مَعَدَّ (ف) مَعَدَّ الشَّيْءِ: جھین لینا۔ اچک لینا۔

لے جانا — الشَّيْءُ: جلدی سے کھینچنا —

الرُّفُوحُ: مرکز سے کھینچنا — فِي الْأَرْضِ: دور

تک جانا — الشَّيْءُ: تباہ ہونا — لَحْمَةٌ:

گوشت کو اگلے دانتوں سے کھانا — السَّنِيفُ:

تلوار سونتنا — الرَّجُلُ: معدہ پر مارنا — مَعَدَّ

و مَعُوذًا) بِالشَّيْءِ: لے جانا — الدَّلْوُ وَبِهَا:

دول کھینچنا اور کونیس سے نکالنا۔

مَعَدَّ: درد معدہ والا ہونا۔ صفت مَفْعُوذٌ۔

إِمْتَعَدَّ الشَّيْءُ: جھین لینا۔ اچک لینا۔ لے جانا۔

المَعَدَّ: معدہ۔ ہونا۔ نرم سبزی۔ تروتازہ پھل۔ تیز

رفقار اونٹ۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُ تَعَدُّو لَامَعَدَّ" اس

کے پاس نہ لگیل ہے نہ کثیر۔

المَعَدَّ: پیٹ۔ پہلو۔

المَعْدَةُ وَالمَعْدَةُ: آنتوں میں پھینچنے سے پہلے

کھانا ہضم ہونے کی جگہ۔ ج مَعِدُو وَمَعِدٌ۔

المُتَمَعَّدَةُ: مِنَ الرُّطْبِ: تروتازہ۔

تَمَعَّدَ الْفُلَانُ: لڑکے کا جوان ہونا —

الْمَرِيضُ: بیمار کا صحت یاب ہونا —

الْمَهْرُؤِيُّ: ہونا ہونے لگنا۔

مَعَزَ (س) مَعَزَا الرَّيْشُ أَوْ الشَّعْرُ: بال کم ہونا

— النَّاصِيَةُ: پیشانی کے سب بال گر جانا —

الطُّفْرُ: ناخن کا چوٹ وغیرہ لگنے سے گر جانا۔

مَعَزَ: مقلس ہونا — وَجْهَةٌ: چہرہ کا غصہ سے

بدلنا۔

أَمَعَرَ الرَّيْشُ أَوْ الشَّعْرُ: بال کم ہونا —

الرُّجُلُ: محتاج ہو جانا۔ أَمَعَرَتِ الْأَرْضُ: کم

نباتات والی ہونا — الرَّجُلُ: مال جھین کر فقیر بنا

دینا۔

الْقَوْمُ: قحط زدہ ہونا۔ بے سبزی والی زمین میں پڑنا

— الْمَوَاشِي الْأَرْضُ: چر کر صاف کر دینا۔

تَمَعَّرَ وَجْهَهُ: چہرے کا رنگ بدل جانا —

زَأَسَهُ: سر کے بال گر جانا۔

المَعَاذَةُ: بد خلقی۔ غصہ کی وجہ سے ترش رو۔

المَعْرُ: کم بال یا کم پروں والا۔ چوٹ لگنے سے

گرنے والا۔ ناخن۔ بے برکت بخیل مرد۔ کم

گوشت والا۔ أَرْضٌ مَعْرَةٌ: کم نباتات والی زمین۔

الْأَمَعَرُ: کم بال والا۔ کم نباتات والی جگہ۔ چہرے

کا سوزہ۔ جس کے بال گر گئے ہوں۔ مؤنث مَعْرَاءُ۔

ج مَعْرُ: ناصیۃ مَعْرَاءُ: بے بال کی پیشانی۔

المَصْفُورُ: غصہ کی وجہ سے ترش روئی۔

مَعَزَ (س) مَعَزَا الشَّيْءِ: سخت ہونا۔ صفت مَعَزٌ

و مَاعِزٌ — الرَّجُلُ: اپنے کام میں کوشش کرنا

— وَأَمَعَزَ الرَّجُلُ: بہت بکریوں والا ہونا۔

مَعَزَ (ف) مَعَزَا الرَّاعِي المَعَزَى عَنِ

الصَّانِ: بکریوں کو بھینٹوں سے جدا کرنا۔

تَمَعَّرَ وَجْهَهُ: چہرہ کا سکرنا — البَعِيْزُ: تیز

دوڑنا۔

إِسْتَمَعَّرَ: کام میں کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے مَا

أَمَعَّرَهُ مِنْ رَجُلٍ یعنی کس قدر قوی اور سخت

ہے۔ "وَمَا أَمَعَّرَ زَايِدٌ" وہ کس قدر مضبوط رائے

والا ہے۔

المَعَزُ وَالمَعَزُ: بکری۔ یہ اسم جنس ہے۔ واحد

مَاعِزٌ ج مَعَزٌ وَمَعِيزٌ. المَعَزُ: زمین کی سختی۔

الْأَمْعُوزُ ج أَمَاعِزُ وَ أَمَاعِيزُ وَالمَعِيزُ وَ

المِعْزَى وَالمَعَارُ: بکری۔ الْأَمْعُوزُ: ہمیں سے

چاہیں تک ہرٹوں کی جماعت۔

المَاعِزُ: فا۔ معز کا واحد (جیسے صاحب و صاحب)

بمعنی بکرا بکری۔ اور کبھی بکری کو مَاعِزَةٌ کہتے ہیں۔

جَمْعُ مَوَاعِزِ: المَاعِزِ وَالمَعِيزِ وَالمُسْتَمْعِيزِ:

اپنے کام میں کوشش کرنے والا۔ و المَاعِزُ:

بکری۔ بکری کی کھال، مرد تیز طبیعت چالاک

دو سروں کو منع کرنے والا۔

المِعْرَاةُ: بکری۔

الْأَمْعَزُ: بہت نکھر چھروالی سخت جگہ مؤنث

مَعْرَاءُ ج مَعْرُوعٌ وَمَعْرُوءَاتٌ وَالمَاعِيزُ:

المَعَارُ: بکری والا۔ بکریوں کا چر والا۔

المَعْرُوءِيُّ: بخیل جو مال جمع کرے اور مسائل کو

منع کرے۔

رَجُلٌ مَعْمَرٌ: خلتا سخت کھال والا مرد۔

مَعَسَ (ف) مَعَسَا الشَّيْءُ: سخت ملنا —

الرُّجُلُ: بے عزتی کرنا۔ تیز مارنا۔

المَغْسُ: دودھ۔ حرکت۔

المَغْسُ وَالمُتَمَغِّسُ: لڑائی میں پیش قدمی

کرنے والا۔

مِعِصٌ (س) مِعِصَا الرَّجُلُ: موج والا ہونا یا

بہت چلنے سے بچوں میں درد والا ہونا۔ صفت

مِعِصٌ وَمِعِصٌ.

تَمَعِصٌ بَطْنُهُ: پیٹ کا درد مند ہونا —

الرُّجُلُ: شرمندہ ہونا۔

مِعِصٌ (س) مِعِصَا وَامْتِعِصٌ مِنَ الْأَمْرِ:

غضبناک ہونا اور کام کا دشوار ہونا۔ صفت مِعِصٌ

و مَاعِصٌ.

مَعْضَةٌ وَأَمْعَضَةٌ غُضِبْنَاكَ كَرْنَا وَرَدْمْنَا كَرْنَا
أَمْعَضُ الشَّيْءِ جَلَانَا

مَعْظُ (ف) مَعْظَا الشَّيْءِ كَيْفِيَّتَا —
الزَّيْنُسُ : بِرَأْيِنَا — بِحَقِّ فَلَانِ : ثَانَا —
وَأَمْتَعَطُ الشَّيْفُ : تَلْوَارِ سَوْمَتَا مَعْظُ
الْحَارِيَّةِ : جَمَاعُ كَرْنَا — الْجَسَدُ : جِسْمُ كَابِي
بَالِ هُونَا

مَعْظُ (س) مَعْظَاوُ مَتْعَطُ الذَّنْبِ : بِهَيْزِي
كَالْكَرْمِ هُونِي بَالِ وَالَا هُونَا مَعْتِ مَعْظُ وَ
أَمْعَطُ

تَمْعَطُ وَأَمْعَطُ وَأَنْمَعْطُ وَأَمْتَعَطُ الشَّعْرُ :
تِيَارِي كِي وَجْهَ بَالِ كَرْنَا — أَمْعَطُ وَأَمْتَعَطُ
الْقَهَّازُ : دَلَانِ كَارِازِ هُونَا — أَمْتَعَطُ زُمْحَةً : تِيَزَه
كَيْفِيَّتَا

الْمَعْطُ وَالْأَمْعَطُ : جِسْمُ بِرَبِي بَالِ وَالَا —
مَوْثُ مَعْطَاءُ جِ مَعْطُ — وَلِصُّ أَمْعَطُ :
بِهَيْزِي كِي مَشَابِيهِ جَوْر — زَمَلُ أَمْعَطُ : بِغَيْرِ
تَابَاتِ كِي رِيگِستانِ أَرْضِ مَعْطَاءُ : بِغَيْرِ تَابَاتِ
وَالِي زَمِينِ

مَعْطَفُ (ف) مَعْطَاؤُ كَرْنَا كَابِي مَعْطُ السَّيْلِ
الْأَرْضِ : سِيلابِ كَارْمِينِ كُو بَالِي جَانَا

مَعْطُ مَعْطَاؤُ الزَّجْلُ : فَا سَدْمَدَه وَالَا هُونَا —
مَعْطُ (ك) مَعْطَاوُ مَعْطَاؤُ التَّهْوُ : كَمَرَا هُونَا —
مَعْتِ مَعْطِيَّتُ مَوْثُ مَعْطِيَّتُ

أَمْعَطُ الْبَيْتُ : كُرَاوَالِ كَمَرَا كُونَا —
تَمْعَطُ كَمَرَا هُونَا كَمَا جَانَا بِهَيْزِي "تَمْعَطُ الزَّجْلُ
عَلَيْنَا" بِعَيْنِي اس نِي بِهَيْزِي سَدِ خَلْقِي كِي

الْمَعْقُ وَالْمَعْقُ وَالْمَعْقُ : كَمَرَا كِي جِ أَمْعَاقُ
وَأَمْعَاقُ وَآمَاعِيْقُ — وَالْمَعْقُ : بِدِ خَلْقِي بِهَيْزِي
تَابَاتِ وَالِي زَمِينِ

مَعَكُ (ف) مَعَكَا الشَّيْءِ : لَنَا — الزَّجْلُ :
زَيْلُ كَرْنَا بِهَيْزِي عَزْتِي كَرْنَا — فَلَانَا فِي
الْحَضْوَمَةِ : عَالِبَانَا — مَعَكَةُ دَيْتُهُ وَبَدْيَتُهُ :
قَرْضِ كِي اَدَائِي كُو لَانَا

مَعَكُ (ك) مَعَاكَ : يَوْ تَوْفِ هُونَا —
مَعَكَةُ زَمِينِ مِي لَوَانَا —
تَمَعَكُ زَمِينِ مِي لَوَانَا —
مَاعَاكَ مَمَاعَاكَ بَدْيَتُهُ : قَرْضِ كِي اَدَائِي كُو

ثَانَا

الْمَعَكُ : يَوْ تَوْفِ — خَتِ بَهْمَزَاوَالِ () —
وَالْمِعْمَعُ قَرْضِ كُو نَالِي وَالَا —
إِبِلُ مَعَكِي : بِسْتِ اَوْتِ —

الْمَعْمَكُ كَمَاءُ شَوْرُو نَوَا — بِرِي —
مَعَلُ (ف) مَعَلَا الشَّيْءِ : كَيْفِيَّتَا لِيْنَا
— الْعُشْبَةُ : كَلْبِي جَرْنَا — أَمْزُهُ : كَامُ كُو
سَاتِيوِي سِي پِلِي كَرْنَا — الزَّجْلُ : تِيَزِ جَلْنَا —
الْحِمَازُ : كَدَمِي كُو خُصِي كَرْنَا — مَعَلَةٌ وَأَمْعَلَةٌ عَنِ
الشَّيْءِ : جَلْدِي سِي بِهَارِيْنَا —

إِمْتَعَلُ الزَّجْلُ : بِهَيْزِي تِيَزَه مَارْنَا —
الْمَعَلُ مِنَ الثَّنَاسِ : بِهَيْزِي تِلَا جَلْدِ يَزِ —
الْمَعْلُ : مَه — كَمَا جَانَا بِهَيْزِي "مَالِكُ مِنْهُ مَعْلُ"
تِيَزِي لِي ضَرُورِي بِهَيْزِي

الْمَعَالَةُ : بِرِي —
جَمَانُ مَعْمُولُ : خُصِي كِيَا هُوَا كَدَمَا —
مَعْمَعُ جَلْدِي كَامُ كَرْنَا — الشَّيْءُ الْمُحْتَرَفُ :
جَلْتِي هُونِي جِيَزِي سِي اَدَاوِي لَكْنَا — الْقَوْمُ : خَتِ
جَنَكُ كَرْنَا خَتِ كَرْمِي مِي جَلْنَا — الزَّجْلُ : كَمْتَلُو
مِي لَفْظِ مَعِ كَثُرُو لَانَا — السَّمَاءُ الْمَطْرُوعَلَى
الْأَرْضِ : خَتِ بَارَشِ كَرْنَا اَدْرِ زَمِينِ كُو صَافِ كَر
رِيْنَا —

الْمَعْمَعُ : تِيَزِ خَاطِرِ عَوْرَتِ — اَدْرِ كَمَا جَانَا بِهَيْزِي "هُوَ
ذُو مَعْمَعُ" وَهِي اَمُورِ بِرِ صَبْرِ كَرْنِي وَالَا بِهَيْزِي —
الْمَعْمَعَةُ : مَه — بَالِسُ وَغَيْرِهِ جَلْتِي كِي اَوَازِ : لِزَائِي
مِي بَمَادِرِ كُو كَا شَوْرِ — كَرْمِي كِي شِدْتِ جِ مَعَامِيغِ
الْمَعَامِيغِ : لِزَائِيَاوَالِ قَتْتِي —

الْمَعْمَعِي : جِسْمِي كِي اِي كُو نِي رَا سِي نَدِ هُوَا اَدْرِ
اِي كِي سِي كِي مِي تَمَارِي سَا هَتَا هُونِي —
الْمَعْمَعَانُ وَالْمَعْمَعَانِي مِنَ الْآيَاتِمِ : خَتِ
كَرْمِ — الْمَعْمَعَانُ : خَتِ كَرْمِي يَا سَرُوِي — كَمَا جَانَا
بِهَيْزِي "جَاءَ فِي مَعْمَعَانِ الصَّيْفِ" بِعَيْنِي وَهِي خَتِ
كَرْمِي مِي آيَاوَالِي فِي مَعْمَعَانِ الشِّتَاءِ بِعَيْنِي وَهِي خَتِ
جَارِي مِي آيَا —

مَعْنُ (ن) مَعْنَا التَّمَنُّةِ : نَعْتِ كِي نَا كَمَرْمِي كَرْنَا
— بِالْحَقِّ : حَقِّ كَا اِنكَارُ كَرْنَا — حَقِّ كَا اَقْرَارُ كَرْنَا —
(ضد)

مَعْنُ (ف) مَعْنَا وَ مَعْنُ (ك) مَعْنُونَا الْمَاءُ :

أَهْسَتْ أَهْسَتْ بَرْنَا — صَفْتِ مَعِينِ — مَعْنُ الْفَرَسِ :
كَمُوْرِي كَا دُورِ تَكِ دُورُنَا — الْمَنْظَرُ
الْأَرْضِ : بِهَيْزِي دَرِي بَارَشِ هُوَا كَرْمِي رِيَابِ كَرْمِيْنَا —
مَعْنُ (س) مَعْنَا الْمَكَانِ أَوِ النَّهْتِ : پَانِي سِي
رِيَابِ هُونَا —

أَمْعَنُ فِي الظَّلْبِ : بِهَيْزِي مِي بِسْتِ مَبَانِدِ
كَرْنَا — فِي الْأَمْرِ : مَعَالِي كِي كَمَرْمِي مِي بِهَيْزِيْنَا —
الضَّبْتُ فِي جُحُودِهِ : كَمُوْرِي كَا سَوَارِخِ كِي اَسْتَأْنِي
هِي مِي غَائِبِ هُونَا — الْفَرَسُ : كَمُوْرِي كَا
دُورُنِي مِي دُورِ دُورِ تَكِ بِهَيْزِيْنَا — النَّظَرُ فِي
الْأَمْرِ : نَهَائِيَّتِ فُورِ كِي سَا هَتَا سُوْجِنَا —
الْوَادِي : زِيَادَه بِهَيْزِي هُونِي پَانِي وَالِي هُونَا —
مَالُهُ : بِسْتِ هُونَا كَمُ هُونَا — بِالْحَقِّ : حَقِّ كَا اِنكَارُ
كِي بَعْدِ اَقْرَارِ كَرْنَا — اِنكَارُ كَرْنَا — الْمَاءُ : پَانِي كَا
أَهْسَتْ أَهْسَتْ بَرْنَا — فَلَانُ الْمَاءُ : پَانِي بَرْنَا —

أَمْعَبْتُ الْأَرْضِ : زَمِينِ كَا رِيَابِ هُونَا —
تَمَعْنُ : زَيْلِ وَ هَتِيْرِي هُونَا —
الْمَعْنُ : مَه — بِرِ نَفْخِ اَهْطَانِ كِي جِيَزِي — بِسْتِ كَمِ —
آسَانِ — لَبَا — كَوَا هُوَا — اَدْحُوْرِي — سَرِخِ كَمَالِ جُو
نُورِي وَغَيْرِهِ بِرِ لَكْنِي جَانِي بِهَيْزِي — بِسْتِ مَالِ وَالَا — كَمِ
مَالِ وَالَا — زَلْتِ — كَمَلِي مِيْدَانِ كَابَانِي —

الْمَعْنَةُ : مَعْنُ كَا اِسْمُ مَرَّةِ — كَمَا جَانَا بِهَيْزِي "مَالُهُ
سَعْنَةٌ وَلَا مَعْنَةُ" بِعَيْنِي اس كِي پَاسِ كَمُ نِيَسِي —
الْمَعْنِي : بِسْتِ مَالِ وَالَا — كَمِ مَالِ وَالَا —
الْمَعْنَانُ : مَنَزَلِ —

الْمَعْنُونُ : بَارَشِ — پَانِي — بِرُوْدِ خَا كِي سَالِمَانِ جِسْمِ
سِي خَوْفِ اَهْطَايَا جَانِي اَدْرِ دُورِ سُرُوِي كُو عَارِيَّتِ بِرِ
دِيَا جَانِي (جِيَسِي بِهَازِي) "جِيَسِي" ذُولُ رَسِي وَغَيْرِهِ
وَغَيْرِهِ (بَهْلَانِي) — فَرْمَانِي اَدْرَارِي — زَكَاةُ — عِنْدَ
الْعَامَّةِ : كَانْفَرَا كَادَرْتِي يَارِيَوْمِ —

الْمَعِينُ : بِهَتَا هُوَا پَانِي — اَدْرِ كَمَا جَانَا بِهَيْزِي "مَاءُهُ
مَعِينٌ" جَارِي پَانِي "سِقَاءُ مَعِينٌ" بِهَيْزِي هُونِي
پَانِي وَالَا مُشْكِلِيَهِي جِ مَعْنَعَاتِ وَ مَعْنُ —
الْمَعْنَعَاتُ وَالْمَعْنَعَانُ : پَانِي بِهَيْزِي كِي جَلْدِ وَ اَدْرِي
مِي پَانِي كِي نَالِي —

كَلَامُ مَعْنُونِ : كَمَالِ جِسْمِ مِي پَانِي جَارِي هُو
زَوْجِي مَعْنُونِ : جَارِي پَانِي سِي رِيَابِ كِيَا هُوَا
بَلُغِ —

مَغَصَةٌ	مواہوتا۔	تَمَغَّصْتُ يَتَمَغَّصُنِي - معنی کھمنا۔ سمنے بیان کرتا۔
مَغَطَّ (ف) مَغَطًا وَمَغَطَّ الشَّيْءُ لِمَا هُوَ	أَمَغَدُ - دیر تک پینا — الصَّبِيُّ - بچے کو دودھ پلانا۔	مَغَامِضُ مَغَامِضِ السَّبَّوْرِ : بلی کامیاؤں میاؤں کرتا۔
کے لیے کھینچا۔		أَمْعَى النَّخْلِ : پکنے کے بعد کچھ خشک
تَمَغَّطَ وَامْتَغَطَ الشَّيْءُ : کھینچنا و طویل ہونا۔	المَغْدُ - مہ - عَيْشٌ مَغْدٌ : آسودہ زندگی۔	مَجُورُونَ دالا ہونا — البَسْرُ : گدر مجبور کا
تَمَغَّطَ البَحْرِجُ : دوڑنے میں اگلے پیروں کو	الضَّم : (ایک دو کا نام) اور بقول بعض بیکن۔	خوش مزہ ہونا۔
پھیلانا۔ — الفَرَسُ : بہت زیادہ دوڑنا۔	ایک پھل جو گلڑی کے مشابہ ہوتا ہے۔ ایک	تَمَشَّى السِّقَاءُ : شگیزہ کاتن جانا —
إِمْتَعَطَ : کھینچنا اور طویل ہونا — السِّيفُ -	درخت کا نام جس کے پتے باریک نازک اور لمبے	السُّرْبِيُّ التَّاسُ : برائی کا پھیلانا۔
توڑا سوتتا۔	ہوتے ہیں اور درخت پر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔	المَغْوُ - ترکمبور جو کچھ خشک ہونے لگے۔
المُتَعَطُ : آنتائی لمبا۔	بڑا ڈول۔ کھوڑے کی پیشانی پر سفیدی کی جگہ۔ ہر	اونٹ کے نچلے ہونٹ کی چٹن۔
مَغَلَّ (ف) مَغَلًّا وَمَغَالَةً بِالزَّجْلِ : چغل	موتی لمبی چیز۔ مواہونت۔	المَعْنَى والمعنى ج اَمْعَاءُ و المِعْمَاءُ ج
خوری کرتا۔	مَغَرَّ (ف) مَغَرًّا فِي البِلَادِ : تیز جانا — یہ	أَمْعِيَةَ آنت مذ کہے اور کبھی مؤنث بھی استعمال
مَغَلَّتْ (س) مَغَلًّا عَيْنُهُ : خراب ہونا۔	بے عیوضہ : لے کے تیز دوڑنا۔	کیا جاتا ہے۔
الْحَامِلُ بَوْلِدَهَا : زمانہ حمل میں دودھ پلانا۔	مَغَرَّ النَّوْبُ : کپڑے کو گیر دے رنگنا۔	مَغَتْ (ف) مَغْتًا الذَّوَاءَ فِي المَاءِ : دوا کو پانی
مَغَلَّتْ (ف) وَمَغَلَّتْ (س) مَغَلًّا الذَّائِبَةُ :	أَمَغَرَّةٌ بِالسَّهْمِ : آر پار کر دینا۔ اَمَغَرَتِ النَّاقَةُ	میں نرم کرنا — الزَّجْلُ : غیر تکلیف دہ مارنا۔
چوپایہ کے پیٹ میں مٹی ملی ہوئی گھاس وغیرہ	اوشنی کا مرض کی وجہ سے سرخ دودھ دالی ہونا۔	پچھاڑنا۔ کہا جاتا ہے "مَغْتَنَّهُمُ الخُمِيُّ" ان کو
کھانے سے درد ہونا۔ صفت مَغَلَّةٌ وَمَغْفُولَةٌ	صفت مُمَغَّرٌ -	بخارا آیا۔ مَغْتَنَّهُ فِي المَاءِ : پانی میں ڈبونا۔ مَغَتْ
اور اسم المَغْلَةُ۔	المَغْفَرَةُ و المَغْفَرَةُ : گیرو۔	الشَّيْءُ : گنڈ کرنا — عِزَّضَ فَلَانٌ : عیب لگانا۔
أَمَغَلَّ القَوْمُ : مٹی ملی ہوئی گھاس وغیرہ کھانے	المَغْفَرُ و المَغْفَرَةُ : غیر خالص سرخی کارنگ۔	مُغِبَّتِ الزَّجْلُ : بخار زدہ ہونا۔
سے پیٹ میں درد والے جانور کا مالک ہونا	المَغْفَرَةُ : دیکھئے ماہ غور۔	مَا عَقَّاهُ مِغْفَاثًا وَمَا عَقَّاهُ : جھگڑا کرتا۔
— الْحَامِلُ وَلَدَهَا : زمانہ حمل کا دودھ پلانا	الْمَغْفَرُ : غیر خالص سرخ رنگ والا۔ وہ مَغْضُ	المَغْفَتُ - مہ - اگلیوں سے مل کر نرم کرنا۔
— بِهِنَّ عِنْدَ السُّلْطَانِ : چغل خوری کرتا۔	جس کے چہرہ میں خالص سفیدی میں سرخی جھلکتی	ایراہنی - محاطہ ج مَغْفَاتُ -
المَغْلُ و المَغْلُ : زمانہ حمل میں عورت کا	ہو۔	المَغْفَتُ : سخت قسم کا پہلوان۔
دودھ المَغْلُ : آگہ کا بچپڑ۔ ج اَمَغَالُ -	لَبْنٌ مَبِغْوٌ : سرخ دودھ خون ملا ہوا۔	المَبِغِيثُ : گھاس جس کو بارش نے پچھا دیا ہو۔
المَغْلُ : ایک قوم کا نام۔ ج مَغْفُولُ -	المَبْغُورَةُ : وہ زمین جہاں سے گیرو نکلے۔	شریر مرد۔
المَغْلَةُ : مغل کا اسم مرہ : فساد۔ سال میں دو	مَغَسٌ (ف) مَغْسًا پیندہ : چھوٹا — هُ	المَغْفَاتُ : چوڑے پتوں اور سفید پھولوں کا
مرتبہ بچے جننے والی بیٹریا بکری۔ ج مَغَالُ -	بِالزُّفْحِ : نیزہ مارنا — المَزَاةُ : عورت سے	ایک درخت۔
المَغَالَةُ : مہ خیانت۔ فریب۔	جماع کرنا۔	المَبْغُوثُ : بخار زدہ۔ بارش سے بچھی ہوئی
مَغْمَعُ الحَمَمِ : گوشت کو نرم کرنا۔	مُغْبَسٌ : آنتوں میں درد والا ہونا۔	گھاس۔
المَغَالَمُ : مہم کرنا — الشَّيْءُ : گنڈ کرنا	مَبِغْضٌ (س) مَبْغُضًا وَمَبْغُضًا آنتوں میں	مَبْغَجٌ (ن) مَبْغِجًا الزَّجْلُ : دوڑنا۔ چلانا۔
— فِي عَمَلِهِ : ناقص و دردی طریقے سے کرنا	درد اور مزوڑ ہونا۔ صفت مَبْغُوضٌ -	مَغْدٌ (ف) مَغْدًا الشَّيْءُ : چوسنا۔
— الأَمْرُ : خلط طہ ہونا — الكَلْبُ فِي	أَمْعَصَةٌ : مزوڑ اور ایشٹن والا کرتا۔	الفَصِيلُ أُمَّةٌ : اونٹ کے بچے کا اپنی ماں کا دودھ
الإِنَاءِ : کتے کا برتن میں منڈالنا۔	تَمَغَّضَ بَطْنُهُ : مزوڑ اور ایشٹن لاحق ہونا۔	پینا — اللَّبَابُ : نباتات لمبی ہونا — الزَّجْلُ
المَغْتَابِيسُ و المَغْتَابِيسُ : چمک پتھر۔	درد ناک کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَمَغَّضَ بَطْنِي" یعنی	فِي عَيْشِهِ : آسودہ زندگی گزارنا — سَفْرَةٌ :
مَغَامِضُ مَغَامِضِ السَّبَّوْرِ : بلی کامیاؤں میاؤں	درد میں جھٹاکا۔ "تَمَغَّضِي الشَّيْءُ وَتَمَغَّضْتُ	بال اکھڑنا — العَيْشُ البَدَنُ : مواہ تازہ کر دینا
کرتا۔	ہینہ" اس نے مجھے تکلیف دی۔	— فَلَانٌ : کال جو ان ہونا — الجَارِيَةُ : جماع
المَغَامُ و المَغَامُ : بلی کی آواز۔	المَتَغْضُ - مہ - آنتوں میں مزوڑ اور ایشٹن۔	کرتا۔
مَغِي يَتَغِي مَغِيًا : غیر مسموم سمجھنا کرتا۔	المَتَغْضُ - عمدہ اونٹ ج اَمْعَاصُ - واحد	مَغْدٌ (ف) وَمَغْدٌ (س) مَغْدًا البَدَنُ : بدن کا
تَمَغَّى الأَدِيمُ : پھڑے کا پھیلاؤ۔		

دودھ ہی لینا۔
 اَمْتَقِعُ غم یا گھبراہٹ کی وجہ سے رنگ بدلنا۔
 المَقْعُ مہم۔ گھمراہو یا پانی۔ ج اَمْتَقِعُ۔
 مَقْلَةٌ (ن) مَقْلًا دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "مَقْلَتُهُ
 عَيْنِي" میری آنکھ نے اس کو دیکھا "وَمَا مَقْلَتُ
 عَيْنَيَّ وَمِثْلُهُ" میری آنکھوں نے اس کی مانند
 نہیں دیکھا۔
 — ہ: پانی میں ڈبونا۔ مَقْلٌ فِي الْمَاءِ غوطہ
 لگانا۔
 — المَقْلَةُ: برتن میں نلکری رکھنا اور پھر
 اس پر پانی ڈالنا اور جب پانی اس سے اوپر آجائے
 تو تقسیم کرنا تاکہ اس طرح سب کو برابر پرا پانی
 مل جائے۔
 مَقْلَةٌ ایک دوسرے کو غوطہ دینا۔
 تَمَقَّلًا باہم غوطہ زنی کرنا۔
 اِمْتَقَلٌ بہا بہا غوطہ لگانا۔
 المَقْلُ مہم۔ کنوئیں کی تہ کنوئیں کی تہ کی مٹی
 یا نلکری۔ سنہر میں غوطہ لگانے کی جگہ۔
 المَقْلُ گوگل کا پھل۔ گوگل۔
 المَقْلَةُ مقل کا اسم مرہ۔ کنوئیں کی تہ۔ نلکری
 جس کو سفر کی حالت میں پانی کی کمی کی وجہ سے
 برتن میں رکھتے تھے اور پھر اس پر پانی ڈالتے تھے
 اور جب پانی اس سے اوپر آجاتا تو پلاستے تھے
 تاکہ اس طرح پانی سب کو برابر پہنچ جائے۔
 المَقْلَةُ آنکھ کا ہیلہ۔ آنکھ۔ ج مَقْلُ۔
 مَقْمَقُ الشَّيْءِ نزم اور آسان ہونا۔
 الشَّيْءُ ذلیل کرنا۔ الْوَلْدُ أُمَّةٌ زور سے
 چوسنا۔
 المَقْمَقِ مطلق کے استہابی صے سے ہونے
 والا۔
 مَقْمَقَةٌ (س) مَقْمَقًا سرخ پکوں والا ہونا۔ صفت
 اَمَقْمَقَةٌ۔
 المَقْمَقَةُ سفیدی مائل نیلگوئی اور یہ مذموم ہے۔
 الأَمَقْمَقَةُ دور۔ بجز زمین۔ سرخ پکوں والا۔ خود
 سر آدی جو یہ نہ جانتا ہو کہ کدھر جا رہا ہے۔
 مَوْتٌ مَقْمَقًا ج مَقْمَقَةٌ۔
 مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ
 تلوار پر میصل کرنا۔ مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ
 مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ مَقْمَقٌ

أَمَقْرٌ لِسْمَكَةِ الْمَالِيحَةِ نمک لگی ہوئی مچھلی
 کو سرکہ میں بھگوننا۔ الشَّيْءُ: کڑوا ہونا
 — اللَّبْنُ: دودھ کا بے مزہ ہونا۔
 اِمْتَقَرُ الرَّيْحَانَةُ پانی ختم ہونے کے بعد کنوئیں کو
 پھر کھورنا۔
 اِمْتَقَرُ اِمْتَقَرًا الرَّجُلُ: اُبھری ہوئی رگ والا
 ہوتا۔
 المَقْرُ والمَقْرُ: ایسا اس کے مشابہ کڑوی چیز۔
 المَمْتَقِرُ: سرکہ میں بھگوئی ہوئی نمکین مچھلی۔
 المُمْتَقِرُ: کھپائی والا کنواں۔
 مَقْسٌ (ن) مَقْسًا الْقَرْيَةُ: مقلک بھرتا۔
 الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ: پانی میں ڈبونا۔ الْمَاءُ
 پانی کا جاری ہونا۔ فَلَانٌ فِي الْأَرْضِ جانا۔
 مَقْسَتْ (س) مَقْسًا وَمَقْسَتْ نَفْسُهُ: جی
 مٹلانا۔
 مَقْسَمَةٌ مَقْسَمَةٌ: باہم ڈبونا۔ خواہی میں مقابلہ
 کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "هَوْنٌ مَقْسَمٌ خَوْثًا" وہ مچھلی
 سے غوطہ زنی میں مقابلہ کرتا ہے۔ اس وقت بولا
 جاتا ہے جب کہ اپنے سے زیادہ قوی سے جھگڑا
 کرے۔
 مَقْطَةٌ (ن ض) مَقْطًا: غصہ میں ڈالنا مَقْطَةٌ
 بِالْعَصَا: لاشی سے مارنا۔ مَقْطُ الشَّيْءِ: بانہنا۔
 مضبوطی ہوئی رسی سے بانہنا۔ عَقْفَةٌ:
 توڑ دینا۔ الْكُفْرَةُ: زمین پر مارنا پھر اٹھانا
 — هُ بِالْأَيْمَانِ: قسم دلانا۔ الْحَبِيلُ:
 رسی بننا۔ الشَّيْءُ گھومت لگانا۔ مَقْطُ الْقَرْيَنِ
 وَمَقْطَةُ وَمَقْطَةٌ: پچھاڑنا۔ مَقْطُ بِالْأَيْلِ:
 مضبوطی ہوئی رسی سے بانہنا۔
 المَقَائِقُ: فائنلکری ڈال کر گھول لینے والا۔ وُلُ
 کی رسی۔
 المَقَائِقُ: مضبوطی ہوئی چھوٹی رسی۔ ج
 مَقْطُ۔
 المَقِطُ: چھ مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ۔
 المَقِطُ: پرندہ چھانے کا جاگہ ج اَمَقَائِقُ۔
 مَقْعٌ (ف) مَقْعًا الشَّرَابُ: بگڑ گئے پینا۔
 — هُ بِشَرِّ: تہمت لگانا۔ الْفَصِيلُ أُمَّةٌ:
 اونٹ کے بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔
 اِمْتَقَعُ الْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّهِ: تھن کا سارا

المغني مہم۔ — فِي الْأَوْيْمِ: چڑے کا
 ڈھیلا پن۔
 فِي الْإِنْسَانِ: خدا تباراوقی طور پر وہ کچھ کتابوں
 اس کے اندر نہ ہو۔
 مَقْعٌ (ف) مَقْعًا الرَّجُلُ: بیوقوف ہونا۔
 زَجَلٌ مَفْاجِحَةٌ: بیوقوف مرد۔
 مَقٌّ (ن) مَقًّا الشَّيْءُ: چیز کو کھولنا۔ اللَّهُ
 عَيْنَهُ: کھیرنا۔
 مَقَّقُ الْقَلْبِ فَرْحَةٌ: پرندہ کا پتے کو چوگانا۔
 عَلِيُّ عِيَالِهِ: فقیری یا بخل سے نان نفعہ میں سختی
 کرنا۔
 تَمَقَّقُ الشَّرَابُ: تھوڑا تھوڑا پینا۔ مَا
 فِي الْعَظْمِ: پڈی سے سارا گودا نکال لینا۔
 وَ اِمْتَقَقُ الْفَصِيلُ مَا فِي الضَّرْعِ: تھن سے
 سارا دودھ ہی لینا۔
 المَقَّقُ: پٹے پن کے ساتھ بہت لسانی۔ ہر دو
 چیزوں کے درمیان دوری۔
 المَقْقَةُ: دودھ پینے والے سینے۔ جاہل لوگ۔
 تھوڑی تھوڑی شراب پینے والے۔
 الأَمَقُّ: پٹے پن کے ساتھ بہت لسا۔ مؤنث
 مَقَّاءٌ ج مَقٌّ: بَلَدٌ أَمَقٌّ: وسیع شہر۔ فَيَحْدُ مَقَّاءُ:
 گوشت سے خالی ران۔ ج مَقٌّ۔
 مَقَّتْ (ن) مَقَّتًا وَمَقَّتَ الرَّجُلُ: بہت بغض
 رکھنا۔
 مَقَّتْ (ك) مَقَّتًا فَلَانٌ إِلَى: ناپسند ہونا۔
 مَقَّتَهُ: بہت بغض رکھنا۔ مَقَّتَهُ إِلَى فَيُبْحِ فَعِيلُهُ:
 مبغوض کرنا۔
 تَمَقَّتْ إِلَى: ناپسند ہونا۔
 تَمَقَّقُوا: بغض کا بعض کے ساتھ بغض رکھنا۔
 المَقَّتُ: مہم زواج المَقَّتُ: باپ کی بیوہ سے
 شادی کرنا۔
 المَقْتِيُّ: باپ کی بیوہ سے شادی کرنے والا۔
 المَقْتِيَّةُ والمَقْتِيَّةُ: ناپسند۔
 مَقْرٌ (ن) مَقْرًا عَقْفَةٌ: لاشی مار کر گردن توڑ
 دینا۔ السَّمَكَةُ الْمَالِيحَةُ: نمک لگی ہوئی
 مچھلی کو سرکہ میں بھگوننا۔
 مَقْرٌ (س) مَقْرًا الشَّيْءُ: کڑوا یا کھٹا ہونا۔ صفت
 مَقْرٌ۔

دودھ چہا۔ مَقَا الظَّنْسْت. دھونا۔

مَلَكَ (ن) مَكَأَ وَتَمَكَّنَكَ وَامْتَكَّنَكَ الْعَظْمُ: ہڈی سے سارا گودا چوس لینا۔ مَلَكَ الشَّيْءُ: ہلاک کرنا۔ برباد کرنا۔ غَرِيْمَةٌ: قرض دار سے وصولی میں اصرار کرنا۔ اِمْتَكَّنَكَ وَتَمَكَّنَكَ الْفَقِيصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ اُمِّهِ: سب کچھ چوس لینا۔ مَكَئِكَ عَلَيَّ غَرِيْمَةٌ: قرض دار سے اصرار کرنا۔

المُكَاكِ والمُكَاكَةُ ہڈی کا گودا۔

المُكْوَكُ: پینے کا پیالہ ڈیڑھ صلح کا پیمانہ۔ کپڑا پینے کی نال۔ ح مَكَايِكُك۔

مَكَّتْ (ن) امْكَنَّ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

اِسْتَمَكَّتْ: پھنسی کا پیپ سے بھرنا۔

مَكَّتْ (ن) مَكَّنَا وَمَكَّنَا وَمُكْوَفَا وَمُكَنَّاتَا وَمِكَيَّنِي وَمِكَيَّنَا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

مُحْرَبًا: صفت مَأَكَّتْ اور اسم المُكَّئِ والمِكَّئِ

مَكَّتْ (ك) مَكَاةً: مھرنا۔

أَمَكَّنَهُ: مھرنا۔

تَمَكَّنَتْ: انتظار کرنا اور مھرنا۔

بِالْمَكَانِ مھرنا۔ فی الْأَمْرِ: جلد بازی نہ کرنا۔

المَكِيئِ: مھرنے والا۔ رنجیدہ۔ ح مَكَّاءُ و

مَكِيئُونٌ

مَكَّدَ (ن) مَكَّنَا وَ مُكْوَدَا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ صفت مَأَكَّدَ: ماءً مَأَكَّدَ: ختم نہ ہونے والا پانی نَاقَةَ مَأَكَّدَةَ: بہت دودھ والی اونٹنی۔ اور ایسا ہی نَاقَةَ مَكَّنَا و مُكْوَدَا: ح

مُكَلِّدُو مَكَاةٍ

المَكَّدِ كَلَّمَا

مَكَّرَ (ن) مَكَّرَا الرَّجُلُ وَ بِهِ: دھوکہ دینا۔

اللَّهُ فُلَانًا: کمری سزا دینا۔ مَكَّرَ الرَّؤُوبَ: گھرو سے رگنا۔ ہ: رگنا۔ ہ: رگنا۔ الْأَرْضَ: سیراب کرنا۔

مَكَّرَ (س) مَكَّرَا: سرخ ہونا۔

مَأَكَّرَهُ: فریب دینا۔

مَكَّرَ: گرائی کے انتظار میں غلہ کو روکنا۔

أَمَكَّرَهُ: دھوکا دینا۔ ہ: اللہ: کمری سزا

دینا۔

تَمَكَّنُوا: بعض کا بعض سے حیلہ کرنا۔

اِسْتَمَكَّرُوا: اِسْتَمَكَّرُوا: گھرو سے رگنا ہونا۔

المَكَّرُ: مہ۔ دھوکا۔ فریب۔ دھوکہ فریب کی سزا۔ گھرو۔

المَكَّرَةُ: مکر کا اسم مرہ۔ لڑائی میں حیلہ و تدبیر۔ بے پھولوں کا ایک قسم کا پودہ۔ کھیت کی سیرابی۔ خوبصورت موٹی پٹلی۔ ح مَكَّرُو مُكْوَرٌ

المَصَاكِرُ: فریب کرنے والا۔ ح مَكَّرَةُ و مَأَكَّرُونٌ

المَكَّرَارُ والمَكَّرُورُ: بہت دھوکہ فریب کرنے والا۔

مَكَّنَسَ (ض) امْكَنَّسَا: نیکس جمع کرنا۔ فی البَيْعِ: قیمت گھٹانا۔ ہ: ظلم کرنا۔

مَكَّنَسَ الرَّجُلُ: خرید و فروخت وغیرہ میں نقصان پہنچانا۔

مَأَكَّنَسَهُ مَكَاةً وَ مَمَّاكَنَسَهُ: قیمت کم کرنا۔ مخالفت کرنا۔

تَمَكَّنَسَ الرَّجُلَانِ فِي البَيْعِ: خرید و فروخت میں باہم جھگڑنا۔

المَكَّنَسُ: مہ۔ محصول۔ نیکس۔ چنگلی۔ ح مَكَّنُوسٌ

المَصَاكِسُ والمَكَّنَّاسُ: نیکس وصول کرنے والا۔ صاحب کس بھی کہا جاتا ہے۔

مَكَّنَمَكَ الرَّجُلُ: چلنے میں لڑھکتا۔

المُفْعُ: سارا گودا چوس لینا۔

مَكَّنَ (ك) مَكَاةً عِنْدَ الْأَمِيرِ: صاحب مرتبہ ہونا۔

مَكَّنَسَتْ (س) مَكَّنَا الْجَزْأَةَ وَ نَحْوَهَا: ٹڈی کا انڈا دینا یا انڈے والی ہونا۔ صفت مَكَّنُونٌ۔ ح مَكَاةً

مَكَّنَهُ وَ امْكَنَّهَ مِنَ الشَّيْءِ: قدرت دینا۔ قادر بنانا۔

أَمَكَّنَ الْأَمْرَ فُلَانًا وَ لِفُلَانٍ: آسان ہونا۔ مکن ہونا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ لَا يُفَكِّئُهُ النَّهْضُ" فُلَانٌ اِثْنَيْ عَشَرَ قَدْرًا نَمِيں۔ وَ امْكَنَّي الْأَمْرَ: یعنی معاملہ میرے قبضہ میں آگیا۔ امْكَنَّكَ الْجَزْأَةَ: ٹڈی کا انڈا دینا۔

مَكَّنَ عِنْدَ الْأَمِيرِ: صاحب مرتبہ ہونا۔

مَكَّنَسَتْ (س) مَكَّنَا الْجَزْأَةَ وَ نَحْوَهَا: ٹڈی کا انڈا دینا یا انڈے والی ہونا۔ صفت مَكَّنُونٌ۔ ح مَكَاةً

مَكَّنَهُ وَ امْكَنَّهَ مِنَ الشَّيْءِ: قدرت دینا۔ قادر بنانا۔

أَمَكَّنَ الْأَمْرَ فُلَانًا وَ لِفُلَانٍ: آسان ہونا۔ مکن ہونا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ لَا يُفَكِّئُهُ النَّهْضُ" فُلَانٌ اِثْنَيْ عَشَرَ قَدْرًا نَمِيں۔ وَ امْكَنَّي الْأَمْرَ: یعنی معاملہ میرے قبضہ میں آگیا۔ امْكَنَّكَ الْجَزْأَةَ: ٹڈی کا انڈا دینا۔

مَكَّنَ عِنْدَ الْأَمِيرِ: صاحب مرتبہ ہونا۔

مَكَّنَسَتْ (س) مَكَّنَا الْجَزْأَةَ وَ نَحْوَهَا: ٹڈی کا انڈا دینا یا انڈے والی ہونا۔ صفت مَكَّنُونٌ۔ ح مَكَاةً

مَكَّنَهُ وَ امْكَنَّهَ مِنَ الشَّيْءِ: قدرت دینا۔ قادر بنانا۔

أَمَكَّنَ الْأَمْرَ فُلَانًا وَ لِفُلَانٍ: آسان ہونا۔ مکن ہونا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ لَا يُفَكِّئُهُ النَّهْضُ" فُلَانٌ اِثْنَيْ عَشَرَ قَدْرًا نَمِيں۔ وَ امْكَنَّي الْأَمْرَ: یعنی معاملہ میرے قبضہ میں آگیا۔ امْكَنَّكَ الْجَزْأَةَ: ٹڈی کا انڈا دینا۔

تَمَكَّنَ عِنْدَ الْأَمِيرِ: بلند صاحب مرتبہ ہونا۔

المَكَانُ وَ بِهِ: مضبوط اور جھے ہوئے قدم والا ہونا۔ (ن)۔ وَ امْكَنَّكَ مِنَ الْأَمْرِ: قادر ہونا یا جھمنہ ہونا۔

المَكَّنُ والمَكِّيَنُ: ٹڈی وغیرہ کے انڈے۔ واحد مَكَّنَةٌ وَ مَكَّنَةٌ ح مَكَّنَاتٌ وَ مَكَّنَاتٌ

المَكَّنَةُ: قوت۔ طاقت۔

المَكَّنَةُ: قدرت۔ پرندوں کا گھونٹا۔ ح مَكَّنَاتٌ

المَكَّنَانُ: موضع۔ جگہ (یہ طرف ہے کون سے) ح امْكِنَةٌ وَ امْكِنٌ۔ ح امْكَانٌ اور کہا جاتا ہے "هُوَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَكَانٍ" اس کے لیے علم کا ایک خاص مرتبہ حاصل ہے "وَهَذَا امْكَانٌ هَذَا" یہ اس کے بدلے میں ہے۔

المَكَاةُ: مہ۔ مرتبہ۔ رنعت شان۔ سنجیدگی۔ کہا جاتا ہے "امش عَلَيَّ مَكَاةً" یعنی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ چلنا۔ ح مَكَاةَاتٌ

المَكِّيَنُ: صاحب مرتبہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَكِّيَنٌ عِنْدَ الْأَمِيرِ" اس کو امیر کے نزدیک مرتبہ حاصل ہے "وَهُوَ امْكِنٌ مِنْ غَيْرِهِ" یہ نسبت غیر کے زیادہ صاحب مرتبہ ہے۔ ح مَكَّنَاةً

المَكِّيَنَةُ: آہستگی۔ کہا جاتا ہے "امش عَلَيَّ مَكِّيَنِيكَ" یعنی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ چلنا۔

المَمْكِيَنُ: یعنی علم النحو: اصطلاح نحو میں وہ اسم جو جنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔

وَالْمَمْكِيَنُ الْأَمْكِنُ: اسم منصرف جس کے آخر میں تینوں حرکات مع تینوں کے ظاہر ہوں۔

وَالْمَمْكِيَنُ غَيْرُ الْأَمْكِنِ: اسم غیر منصرف جس کے آخر میں کسر اور تینوں نہ آئے۔

غَيْرُ الْمَمْكِيَنِ: وہ اسم جو جنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔

وَالْمَمْكِيَنُ الْأَمْكِنُ: اسم منصرف جس کے آخر میں تینوں حرکات مع تینوں کے ظاہر ہوں۔

وَالْمَمْكِيَنُ غَيْرُ الْأَمْكِنِ: اسم غیر منصرف جس کے آخر میں کسر اور تینوں نہ آئے۔

غَيْرُ الْمَمْكِيَنِ: وہ اسم جو جنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔

وَالْمَمْكِيَنُ الْأَمْكِنُ: اسم منصرف جس کے آخر میں تینوں حرکات مع تینوں کے ظاہر ہوں۔

وَالْمَمْكِيَنُ غَيْرُ الْأَمْكِنِ: اسم غیر منصرف جس کے آخر میں کسر اور تینوں نہ آئے۔

غَيْرُ الْمَمْكِيَنِ: وہ اسم جو جنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔

وَالْمَمْكِيَنُ الْأَمْكِنُ: اسم منصرف جس کے آخر میں تینوں حرکات مع تینوں کے ظاہر ہوں۔

وَالْمَمْكِيَنُ غَيْرُ الْأَمْكِنِ: اسم غیر منصرف جس کے آخر میں کسر اور تینوں نہ آئے۔

غَيْرُ الْمَمْكِيَنِ: وہ اسم جو جنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔

وَالْمَمْكِيَنُ الْأَمْكِنُ: اسم منصرف جس کے آخر میں تینوں حرکات مع تینوں کے ظاہر ہوں۔

وَالْمَمْكِيَنُ غَيْرُ الْأَمْكِنِ: اسم غیر منصرف جس کے آخر میں کسر اور تینوں نہ آئے۔

غَيْرُ الْمَمْكِيَنِ: وہ اسم جو جنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔

وَالْمَمْكِيَنُ الْأَمْكِنُ: اسم منصرف جس کے آخر میں تینوں حرکات مع تینوں کے ظاہر ہوں۔

وَالْمَمْكِيَنُ غَيْرُ الْأَمْكِنِ: اسم غیر منصرف جس کے آخر میں کسر اور تینوں نہ آئے۔

امکاء۔

الْمَكَاءُ: سفید رنگ کا خوش آواز پرندہ۔ ج
مکائی۔

الْمَكْوَةُ: در۔

مَلٌّ (ن) مَلَأَ الْقَوْبَ: کپڑے پر لنگر کرنا۔ کچا
کرنا — الشَّيْءُ فِي الْحَمْرِ: انگاروں میں
رکنا۔ صفت فاعل مَلَأَ صفت مفعول مَمْلُوءٌ
وملین۔

— الْمَسْهُمُ بِالنَّارِ: تیر کو آگ سے سیدھا کرنا
— الْمَحْمُ أَوْ الْخُبْزُ: گوشت یا روٹی کو
بھو بھل میں ڈالنا۔ تیز روڑنا —
عَلَيْهِ السَّفَرُ: سفر طویل ہونا۔

مَلٌّ (س) مَلَأَ حُلَّالًا لَاحِقًا: مرض یا غم کی
وجہ سے تڑپنا — الشَّيْءُ: الٹ پلٹ کرنا۔
المُخْمُومُ: بخار زدہ کا کہلانا۔

مَلٌّ (س) مَلَأَ وَمَلَأَ وَمَلَّءَ وَمَلَّءَ الشَّيْءُ
وَمِنْ الشَّيْءِ: تک بول ہونا۔ زچ ہونا۔

مَلَّلَ تَمْلِيلًا الشَّيْءَ: الٹ پلٹ کرنا۔
أَمَلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ: طویل ہونا۔ أَمَلَهُ الْأَمْرُ
وَأَمَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔ ملال میں ڈالنا۔
أَمَلَهُ الشَّيْءُ: بھو بھل میں ڈالنا۔

أَمَلْتُ إِمْلَالًا وَأَمَلَيْتُ إِمْلَاءَ الْكِتَابِ
عَلَى الْكُتَّابِ: امل کرنا۔

تَمَلَّلَ: مرض یا غم کی وجہ سے تڑپنا —
فِي الْمَشْيِ: تیز روڑنا — مَلَّةٌ كَذَا:
مذہب اختیار کرنا — الْخُبْزَةُ: روٹی کو
بھو بھل میں پکانا۔

إِنْمَلَّ: کھینچنا۔ نکل آنا۔

إِسْتَمَلَّ الشَّيْءُ: زچ ہونا۔

الْمَلَّ: مہ۔ زَجَلٌ مَلٌّ: آگیا ہوا مرد۔

المَلَّةُ: اسم مرآة۔ چنگاری، بھو بھل، بخار کا
ہیئت۔ تک دلی و خُبْزُ المَلَّةِ: بھو بھل کی پکی
ہوئی روٹی اور کہا جاتا ہے "زَجَلٌ مَلَّةٌ" بہت
جلدی طول ہونے والا۔

المَلَّةُ: مذہب۔ شریعت۔ خون بہا۔ ج مَلَّلَ۔

المَلَّةُ: کچی سلانی۔ ج مَلَّلَ۔

المَلِّيُّ: بھو بھل میں پکی ہوئی روٹی۔

المَلَّلُ وَالمَلَّلَانِ: تک دل۔

المَلَّلَانِ: مرض یا غم کی وجہ سے اضطراب۔ پیٹھ
کا درد۔ کمان کی پیٹھ۔ ہڈی کے اندر کی گرمی۔ بخار کا
ہیئت۔ گوار کے بغیر کی کھڑی۔

المَلْمُولُ وَالمَلْمُولَةُ وَالمَلْمُولَةُ تَمَكَّ
دَلٌّ مَدْرُومُوثٌ تَامَالِدٌ كَالْمَلْمُولِ لِيَسَّهَ۔

المَلْبِيلُ وَالمَصْمُولُ: بھو بھل میں بھنا ہوا۔
الشَّيْءُ المَصْمُولُ: باعث ملال۔ المَلْبِيلُ:
کریلی۔ زَجَلٌ مَلْبِيلٌ: آفتاب سے جھلسا ہوا مرد۔

المَلْبِيلُ وَالمَمْلُ مِنَ الطَّرِيقِ: بہت چلتا ہوا
راستہ۔

— المَلْبِيلَةُ: اندرونی بخار۔ پیاس کی تیزی۔
مَلَاءَةٌ (ف) مَلَا وَمَلَّاءَةٌ وَمَلَّاءَةٌ: بھرتا۔

— الإِنَاءُ مَاءً وَبِالمَاءِ وَمِنْ المَاءِ: برتن کو
لباب کرنا۔ صفت مفعول مَمْلُوءٌ: اور کہا جاتا ہے
مَلَّاءَةٌ عَلَى الأَمْرِ: اس کی اس نے مدد کی "و"
نَظَرْتُ إِلَيْهِ فَمَلَّأَتْ مِنْهُ عَيْنِي" میں نے اس کو
دیکھا مجھے اس کا دیکھنا بھلا معلوم ہوا وَمَلَّاءَةٌ عَلَيْهِ
الأَرْضُ: اس نے اس پر زمین تک کر دی۔

مَلَّوْ (ك) مَلَّاءَةٌ وَمَلَّاءَةٌ: تو انگر ہونا۔ مَلَّوْ
(ك) وَمَلَّوْ مَلَّاءَةٌ: زکام والا ہونا۔

مَلَّوْ (س) مَلَا وَتَمَلَّأَ: پر ہونا۔ صفت مَلَّانٌ۔
مَلَّاءَةٌ تَمَلَّأَتْ: خوب بھرتا (تجدید مبادلہ کے لیے
ہے) مَلَّافِي قَوْسِهِ: کمان کو خوب زور سے کھینچنا۔

أَمَلَّاءَةٌ: باعث زکام ہونا۔ صفت مَلَّانٌ۔ أَمَلَّاءٌ
فِي القَوْسِ: خوب زور سے کھینچنا۔
تَمَلَّأَ: پر ہونا۔ تَمَلَّاتِ المَرْأَةُ: عورت کا چادر
اوڑھنا۔

مَالَاءَةٌ مُمَالَاءَةٌ وَمَلَّاءَةٌ عَلَى الأَمْرِ: موافقت
کرنا۔ مدر کرنا۔

تَمَلَّأَ القَوْمُ عَلَى الأَمْرِ: اکٹھا ہو کر یا ہم مدد
کرنا۔

إِسْتَمَلَّ لِي دِينِهِ: قابل اعتماد اغیاء کو قرض
دینا۔

المَلَّ: برتن بھرنے کی مقدار۔ ج أَمَلَّاءٌ: اور کہا
جاتا ہے "إِنَّهُ يَتَأَمَّلُ مَلَّ جَفْنِهِ" وہ بے غم سوتا ہے و
"فَلَّانٌ مَلَّ كَسَائِهِ" فلاں موٹا ہے۔

المَلَّاءُ: قوم کی جماعت۔ اشراف قوم جن سے
دلوں میں ہیبت طاری ہو۔ المَلَّاءُ الأَعْلَى: ملائکہ

مقربین۔ المَلَّاءُ: مشورہ۔ کہا جاتا ہے "مَا كَانَ
هَذَا الأَمْرُ عَنِ مَلَّاءٍ وَمَتَّأٌ" یہ کام ہمارے مشورہ
سے نہیں تھا۔ کمان۔ لاج۔ ج أَمَلَّاءٌ اور کہا جاتا
ہے "مَا أَحْسَنَ مَلَّاءِي فُلَّانٍ" یعنی ان کے
عادات و اخلاق کس قدر اچھے ہیں۔

المَلَّاءِيُّ: فا۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ مَلَّاءِي" مرد
جلیل جس کے سامنے آنکھیں نہ ٹھہر سکیں۔ و
شَابٌ مَلَّاءِي العَيْنِ: آنکھوں کو بھر دینے والا
جوان۔

المَلَّاءُ وَالمَلَّاءَةُ وَالمَلَّاءَةُ: زکام۔ المَلَّاءَةُ:
تہ بند۔ زہری چادر۔ ج مَلَّاءٌ۔

المَلَّاءَةُ: مہ۔ بھرنے کی ہیئت۔ بد بھنی۔
المَلَّانُ: بھرا ہوا۔ زکام والا۔ مؤنث مَلَّاءِي وَ
مَلَّاءَةٌ ج مَلَّاءٌ۔

المَلَّوْ وَالمَلَّوْ: تو انگر۔ ج مَلَّاءَةٌ وَأَمَلَّاءَةٌ وَ
مَلَّاءٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ أَمَلَّاءُ القَوْمِ" یعنی وہ قوم
میں سے زیادہ غنی اور قادر ہے و "فَلَّانٌ أَمَلَّاءٌ
لِعَيْنِي مِنْ فُلَّانٍ" یعنی فلاں فلاں کے لحاظ سے
حسن میں زیادہ کامل ہے۔

مَلَّئَةٌ (ش) مَلَّئَتْ: حرکت دینا۔ زور سے بلانا۔
مَلَّئَةٌ (ن) مَلَّئَتْ: بغیر نیت و فا کے محض فُؤائی

وعدہ سے دل خوش کر دینا۔ آہستہ مارنا۔ مَلَّئَةٌ
بِالمَلَّوْ: آلودہ کرنا۔ مَلَّئَتْ الظَّلَامُ: گھٹا ٹوپ
اندھیرا ہونا۔

مَلَّئَةٌ مَلَّاءَةٌ وَمَلَّائَةٌ: کھیل کود کرنا۔ مداہنت
برتنا۔

مَلَّئَتْ اللَّيْلُ وَمَلَّئَتْ: رات کی ابتدائی تاریکی۔
المَلَّئَةُ: مغرب کے وقت کی ابتدائی تاریکی۔

المَلَّئَةُ: وہ شخص جو جماع کرنے سے سیرت
ہو۔

مَلَّجٌ (ن) وَ مَلَّجٌ (س) مَلَّجًا المَلَّجِيُّ أُمَّةٌ:
پینے کا بوتلوں میں لے کر دووہ پینا۔

أَمَلَّجَةٌ: دووہ پلانا۔

إِمَلَّجٌ: صافی القندی۔ چونا۔

المَلَّجُ: گوگل کے پھل کی کھٹلی۔ ج أَمَلَّجٌ۔
المَلَّجُ: دووہ پینے والے سمجھنے۔ چھوٹے

چھوٹے بکری کے بچے۔

المَلَّجُ: دووہ پینا۔ ج۔ مرد بزرگ۔

الْمَلْحُ: چٹیل میدان۔ آملہ۔
الْمَلْحُج: ایک جنگلی درخت جس کے پتے
سرو اور بھاد کی طرح ہوتے ہیں۔ نازک ٹہنی۔
اور بقل بعض جڑبوڑم ہونے کے لئے مٹی میں
وادی جائے۔ ج امالیج۔

المَلْحَج: کرنی۔ گل کاری کرنے کا آلہ۔ ج
مَوَالِج: (دخیل)

مَلْح (ف) مَلْحًا الطَّعَامُ: کھانے میں نمک
ذاتنا — الزَّجْلُ: غیبت کرنا —
الطَّائِرُ: پرندہ کا بہت پڑھیزانا —
الْمَالِحِيَّةُ: نوئی کھانا اور کما جاتا ہے "مَلْحُ اللّٰهُ
فِيهِ" یعنی اللہ اس کی زندگی میں برکت دے۔
مَلْح (ف) و مَلْح (ك) مَلْحُوْحَةٌ و مَلَاْحَةٌ و
مَلْحُوْحًا الْمَاءُ: پانی کا کھاری ہونا۔ صفت مَلْيَح
اور نادر طور پر لُح بھی مستعمل ہے۔

مَلْح (ك) مَلَاْحَةٌ و مَلْحُوْحَةٌ: خوبصورت
ہونا۔ حسن طبع والا ہونا۔ صفت مَلْيَح و مَلَاْح و
مَلَاْحٌ۔

مَلْح (س) مَلْحًا نَيْلُوْنَ رَنگ کا ہونا۔
مَلْحِ الشَّيْءِ: نمکین کرنا — الطَّعَامُ: کھانے
میں بہت نمک ڈالنا — السَّمَكُ و نَخْوَةٌ:
مچھلی وغیرہ میں نمک لگانا — الدَّابَّةُ: چوپائے
کے جڑے پر نمک ملنا۔ الْمَالِحِيَّةُ: جانور کو نوئی
کھانا۔ الْمُتَمَلِّحُ: عمدہ بات کہنا۔

أَمْلَحَ الْمَاءُ: پانی کا خوشگوار ہونے کے بعد
کھاری ہونا — الطَّعَامُ: کھانے میں بہت
نمک ڈالنا — الْأَبْلُ: کھاری پانی پر جانا
— الزَّجْلُ: کھاری پانی پر پہنچنا —
الزَّاعِي الْأَبْلُ: کھاری پانی پلانا — الشَّيْءُ:
نیلگوں رنگ کا ہونا۔

الْمُتَمَلِّحُ: عمدہ بات کہنا۔ اور تعجب کے موقع پر
کما جاتا ہے "مَا أَمْلَحَهُ و مَا أَمْلَحَهُ" یعنی کس
قدر خوبصورت ہے۔

مَالِحَةٌ مَلَاْحًا و مَمَالِحَةٌ: ساتھ کھانا۔ کما
جاتا ہے "هُوَ يَحْفَظُ حُرْمَةَ الْمَمَالِحَةِ" وہ
ساتھ کھانے کا پاس کرتا ہے۔ مَالِحٌ فَلَانًا: ایک
بچے کا دوسرے بچے کے ساتھ دوڑھ جینا۔

تَمَلَّحَ الْبَعِيْثُ: اونٹ کا موٹا ہونا —

الزَّجْلُ: نمک توڑش میں لینا۔ نمک کی تجارت کرنا۔
کما جاتا ہے "فَلَانٌ يَتَطَلَّفُ و يَتَمَلَّحُ" فلاں
خوش طبع اور دلچسپ باتیں کہتا ہے۔

إِمْلَاحُ الْكَبْشِ: میڈھے کا سفید و سیاہ رنگ کا
ہونا۔

إِمْلَاحُ النَّخْلِ: سرخ اور زرد کی کھجور کا ہونا۔
إِسْتَمْلَاحُ الشَّيْءِ: طبع سمجھنا۔

الصَّلْحُ: عمدہ عمدہ باتیں۔
المَلْحُ: نمک (مذکر و مؤنث تانیث غالب ہے)

تفسير مَلْيَحَةَ: ج ملاح. المَلْحُ: جربلی، موٹا۔
خوبصورتی۔ رضاعت۔ علم۔ علماء۔ مَاءٌ مَلْحٌ:
کھاری پانی اور کبھی مَاءٌ مَالِحٌ بھی کہا جاتا ہے۔ ج
مَلْح و مَلْحَةٌ و مَلَاْح و إِمْلَاح. کما جاتا ہے
"فَلَانٌ مَلْحَةٌ عَلَيَّ رُكْبَتَيْهِ" وہ بے وفا ہے یا وہ
بہت جھگڑا کرنے والا ہے۔

الصَّلْحُ و المَلْحَةُ: حرمت۔ معاہدہ۔ کما جاتا ہے
يَتَمَلَّحُ الْمَلْحُ اور مَلْحَةٌ اُن دونوں کے درمیان
معاہدہ ہے۔ و المَلْحَةُ: کھاری۔ کما جاتا ہے "بَشْرٌ
مَلْحَةٌ" کھاری کنواں۔

الصَّلْحُ: سپیدی سیاہی ملی ہوئی۔ سخت نیلگوئی۔
گھوڑے کی اڑی کی سوجن۔

الصَّلْحَةُ: اسم مرۃ۔ موج دریا۔

الصَّلْحَةُ: سخت نیلگوئی۔ بیت۔ خوف۔ برکت۔

الصَّلْحَةُ: مزید ارباب۔ ج مَلْحُ۔

الصَّلْحَةُ: کلمہ ملبیحہ۔

المَلَاْح: کشتی چلانے والی ہوا۔ نیزہ کا بھالا۔
پوشش۔ توہرہ۔

المَلَاْح: خوبصورت۔ ج مَلَاْحُوْنَ۔

المَلَاْحَةُ: خوبصورت ہونا۔

المَلَاْحَةُ: جمازرائی۔

المَمْلَحَةُ و المَلَاْحَةُ: نمک پیدا ہونے کی

جگہ۔ المَلَاْحَةُ: نمک بکنے کی جگہ۔

الْمَلْحُوْحَةُ مِنَ الْكَلَامِ: عمدہ مستحسن کلام ج

أَمَالِيح۔

المَلَاْح: نمک والا۔ نمک بیچنے والا۔ جمازراں۔

المَلَاْح: ایک ترش نباتات۔ واحد مَلَاْحَةُ

و زَجْلٌ مَلَاْحٌ: خوبصورت خوش طبع مرد۔ ج

مَلَاْحُوْنَ۔

المَلَاْحِيَّةُ: جمازراں کا پیشہ۔
المَلْحُوْحَةُ: سم۔ عسکینی۔

المَلْيَحُ: خوبصورت۔ مؤنث مَلْيَحَةٌ ج

مَلَاْح و أمْلَاح — مِنَ الْمَاءِ: کھاری پانی۔
سَمَكٌ مَلْيَحٌ: نمک لگی ہوئی مچھلی۔

الْمَلْحُ: اسم تفضيل۔ سفید و سیاہ رنگ والا۔
ج مَلْحٌ: الْأَمْلَحُ: خشم جو رات کو سبزیوں پر
پڑتی ہے۔

المَلْحَاءُ: تانیث الْمَلْحُ۔ سفید و سیاہ رنگ
والی درخت جس کے پتے بھڑکے ہوں۔ بڑا لشکر
ج مَلْحَاوَات۔

المَلَاْحِي و المَلَاْحِي: سفید لہبا انگور۔ ایک
قسم کا انجیر۔

المَمْلَحَةُ: نمک دان۔ ج مَمَالِح۔

المُتَمَلِّحُ: نمک والا یا سوداگر نمک۔

مَلْح (ف) مَلْحًا الشَّيْءُ: ہاتھ یا دانت سے
کھینچنا — الطَّعَامُ: کھانے کا خراب و بد مزہ

ہونا۔ الْقَرْمُشُ: گھوڑے کا کلیس کرنا —

الزَّجْلُ: تیز چلنا۔ بھگانا — فِي النَّاطِلِ:

لغو و باطل میں بہت مشغول ہونا —

الْمَلْحَاةُ: جماع کرنا۔

مَلْح (ك) مَلَاْحَةُ الطَّعَامِ: کھانے کا خراب

و بد مزہ ہونا۔

مَالِحَةٌ مَلَاْحًا و مَمَالِحَةٌ: باہم کھیل کود کرنا۔

چاپلوسی کرنا۔

تَمَلَّحَ الشَّيْءُ: خراب و فاسد ہونا —

الشَّيْءُ: کھینچنا۔

إِمْتَلَّحَ الشَّيْءُ: اکھینچنا۔ کھینچنا — يَدَهُ مِنْ

الْقَابِضِ عَلَيْهِ: کھینچ لینا — السَّيْفُ:

تگوار کو جلدی سے سونٹا۔ کما جاتا ہے "مَرَّ بِرُفْعِ

مَرْمُوزِيٍّ فَامْتَلَّحَهُ" اس کا گزر ایک گڑے

ہوئے نیزہ پر ہوا اور اس نے اسے اکھینچ لیا۔

المَلَاْحُ: بہت چاپلوسی کرنے والا۔ عَيْدٌ

مَلَاْحٌ: بہت بھانگے والا غلام۔

المَلْحُوْحِيَّةُ: ایک قسم کی سبزی جو پکا کھائی

جاتی ہے۔

المَلْيَحُ: بگڑا ہوا کھانا۔ بے مزہ۔ کمزور۔

مُتَمَلِّحُ الْعَقْلِ: محروم العقل۔

سے نکل گئی — الرَّجُلُ: بھاگ نکلتا۔
 مِلْصٌ (ن) مَلْصًا بِسَلْجِه: پاشمانہ کرنا۔
 اَمْلَصَتِ الْحَائِلُ: حاملہ کا بچہ گرا دینا۔
 صفت مُمْلِصٌ ج مَمْلِصٌ: اَمْلَصَ الشَّيْءُ: پھسلانا۔
 تَمْلَصَ وَانْمَلَصَ وَانْمَلَصَ مِنْهُ: بچ نکلتا۔
 رہائی پانا — الشَّيْءُ: مِلْصٌ: پھسل جانا۔
 المَلْصُ: ننگا۔
 المَلْصُ: مہ۔ پھسلنا۔
 المِلْصُ: مِلْصٌ مِنَ الْجَبَالِ وَنَحْوِهَا: پہاڑ وغیرہ کی وہ چٹائی جگہ جہاں سے ہاتھ پھسل جائے اور پکڑنا دشوار ہو۔ سَمَكَةٌ تَلْصَةُ: چمکنے والی مچھلی۔
 المِلْصُ: بمعنی مِلْصٌ اسقاط شدہ بچہ۔
 الْأَمْلَصُ: نرم و تر۔ رَجُلٌ أَمْلَصُ الزَّوَالِ: سر پر بغیر بالوں کا مرد۔
 المِئْطَلِصُ: وہ عورت جس کو اسقاط کی عادت ہو گئی ہو۔
 المِئْطَلِصُ: اسقاط شدہ بچہ۔
 مَلَطَ (ن) مَلَطًا الْحَائِلُ: مٹی سے لپینا — الشَّعْرُ: بال مونڈنا۔
 مَلَطَتْ وَامْلَطَتِ الْحَائِلُ جَبِيْنَهَا: حاملہ کا تمام بچہ گرا دینا۔ اَمْلَطَ رَيْشَ السَّهْمِ: تیر کے پر کا گرجانا — الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔
 مَلَطَ (ن) وَامْلَطَ (ك) مَلَطًا الْغَلَامَ: غیر معروف النسب ہونا۔
 مِلَطَ (س) مَلَطًا وَامْلَطَةً: بے بال کے جسم والا ہونا۔
 مَلَطَ الْحَائِلُ: دیوار کو مٹی سے لپینا — الشَّاعِرُ: ایک شاعر کا ایک مصرعہ پڑھنا اور دوسرے کا شعر کو پورا کرنا۔
 مَالِظُهُ مَنَاطَلَةٌ: باہم ملنا۔ ایک شاعر کا ایک مصرعہ پڑھنا اور دوسرے کا شعر کو پورا کرنا۔
 تَمَلَطَ الشَّيْءُ: چمک دار ہونا — السَّهْمُ: تیر کا بے پر ہونا۔
 اِمْتَلَطَ الشَّيْءُ: چمچین لینا۔ اچک لینا۔
 المِلْطُ: شریروں کا جس پر بھروسہ نہ کیا جا سکے غیر معروف النسب ج اَمْلَطُوا مَلَطُوا:

کرنا۔ چال چوسی کرنا۔
 مِلْسٌ (س) وَامْلَسَ (ك) مَلُوْسَةٌ وَمَلَاْسَةٌ: نرم اور چمکدار ہونا۔ صفت اَمْلَسُ۔
 مِلْسٌ الشَّيْءُ: نرم و چمکدار کرنا — الْأَرْضُ: زمین کو ہموار کرنا — فَمِنْ الْأَمْرِ: چھڑانا۔
 اَمْلَسَ الظَّلَامَ: گھناؤپ اندھیرا ہونا۔
 اَمْلَسَتِ الشَّاةُ: گرے ہوئے اون والی ہونا۔
 تَمَلَسَ: چمکنا ہونا — مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: خارج ہونا — مِنَ الشَّرَابِ: نشہ سے ہوش میں آنا — وَانْمَلَسَ وَامْلَسَ مِنَ الْأَمْرِ: بچ نکلتا رہائی پانا۔
 اِمْتَلَسَ الشَّيْءُ: اچک لینا۔ اَمْتَلَسَ نَصْرَةَ: اس کی نگاہ جاتی رہی۔
 اِمْلَأَسَ: چمکنا ہونا — مِنَ الْأَمْرِ: بچ نکلتا۔ رہائی پانا۔
 اَمْلَسَ: ہموار جگہ۔ ج مَلُوْسٌ وَامْلَأَسُ: و ج اَمَالِيْسُ: مِلْسٌ الظَّلَامَ: سخت تاریکی اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔
 اَمْلَسَ: بہت تیز رفتار اونٹنی اور کہا جاتا ہے بَابِعَةُ اَمْلَسَ اس سے بلا شرط بیچ کر۔
 اَمْلَسَ: نرم چمکنا۔ سَوْنَتٌ مَلْسَاءُ: اَمْلَسَ: آسانی سے طلق سے اترنے والی شراب۔ سَنَةٌ مَلْسَاءُ خِلك سال۔ ج اَمَالِيسُ وَ اَمَالِيْسُ: الْأَلْفُ الْمَلْسَاءُ: الف لیں۔ جیسے کتاب کالف۔
 المِلْسُ: نرم اور چمکنا۔
 المِلْسَاءُ: دوپہر مغرب اور عشاء کا درمیان۔
 اِمَالِيْسٌ وَ اِمَالِيْسَةٌ: خِلك جگہ۔ ج اَمَالِيْسُ اور اَمَالِيسُ شاذ ہے۔
 المِلْأَتُ وَ المِلْسَةُ: بیگا۔ سرواں۔ پٹلا۔
 مَلَسَ (ن) مَلْسًا الشَّيْءُ: ہاتھ سے ٹھول کر کسی چیز کو مونڈنا۔
 المَالُوْسُ عِنْدَ الْعَامَةِ: ایک کبڑا ہے جو نباتات کی جڑوں کو کھا جاتا ہے۔ ج مَوَالِيْسُ۔
 مِلْصٌ (س) مَلْصًا الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ: چمکنے ہوئے کی وجہ سے ہاتھ سے پھسل جانا۔ کہا جاتا ہے "مِلْصَتِ السَّمَكَةُ مِنْ يَدِي" مچھلی میرے ہاتھ

مَلْدٌ (ن) مَلْدًا الشَّيْءُ: کھینچنا۔
 مِلْدٌ (س) مَلْدًا الْفَضُّنَ: ٹہنی کا بلتا اور نرم ہونا۔
 مَلْدًا الْوَدِيمَ: چھڑے کو نرم کرنا — الرَّيْثُ الْفَضُّنَ: ٹہنی کو نرم و نازک کرنا۔
 المِلْدُ: جوانی۔ نزاکت۔ ج اَمْلَادُ۔
 المِلْدَانُ: ٹہنی کی نزاکت۔
 المَلْدُ وَ اَلْمَلْدُ وَ اَلْمَلْدُ وَ اَلْمَلْدُ وَ اَلْمَلْدُ وَ اَلْمَلْدُ: نازک ٹہنی یا آدمی۔ کہا جاتا ہے "سَابَ اَمْلُوْدُو شَبَابًا مَالِيْدًا" اَمْلُدٌ: بھوت۔
 المَلْدَاءُ: تاجیفات اَمْلُدٌ۔ ج مُلْدٌ: کہا جاتا ہے اِمْرَاةٌ مَلْدَاءٌ وَ اَمْلُوْدَةٌ وَ اَمْلُوْدِيَّةٌ یعنی نازک بدن عورت۔
 مَلْدٌ (ن) مَلْدًا الرَّجُلُ: بھوت ہونا — فَهَلَاكًا: تیز مارنا — الْفَرْصُ: گھوڑے کا بازوؤں کو پھیلنا اور تیز دوڑنا — مَلْدًا وَ مَلَادَةً الرَّجُلُ: مھن یا توں ہی سے خوش کرنا اور کھینے کے مطابق عمل نہ کرنا۔
 مِلْدٌ (س) مَلْدًا الظَّلَامَ: گھناؤپ اندھیرا ہونا — الرَّجُلُ: خالص دوستی نہ کرنا اور صمیم کے خلاف ظاہر کرنا۔
 اَلْمَلْدُ وَ المِلْدَانُ وَ المَلْدَانِيُّ وَ المَلَادَانِيُّ وَ المَلَادُ وَ المِلُوْدُ: خالص دوستی نہ کرنے والا۔
 مَلَزَ (ن) مَلَزًا: چبچے رہنا — بِالشَّيْءِ: لے جانا۔
 مَلَزَهُ مِنْهُ: چھڑانا۔ مَلَزَ الشَّيْءَ عَيْنِي: جانا رہنا۔
 اَمْلَزَهُ وَ تَمْلَزَهُ وَ اَمْتَلَزَهُ: نکال لینا۔ اچک لینا۔ لے جانا۔ وَ تَمْلَزَ مِنْهُ: چمکنا پانا۔
 اِنْمَلَزَ وَ اَمْتَلَزَ مِنْهُ: بچ کر نکل جانا وَ اَمْتَلَزَ عَنْهُ: چبچے رہنا۔
 المَلَزُ مِنَ الرَّجَالِ: مضبوط بیٹوں والا۔
 المِلْأَزُ: بہت اچکنے والا۔ بھیرنا۔
 مَلَسَ (ن) مَلْسًا الشَّيْءُ: جڑ سے اکھڑنا۔
 اَلْإِبِلُ: زور سے ہانکنا — الظَّلَامَ: گھناؤپ اندھیرا ہونا — الرَّجُلُ يَلْسَانِيَه: مہابت

المِلاط۔ لیسے کی مٹی۔ ج۔ ملط۔
الأملاط۔ ج۔ ملط والمليط۔ بے بال کے جسم
والاسنہم۔ ملط ومليط۔ بے پر کا تیر۔ المليط
بے بال کا سا کھڑا شدہ بچہ۔
المملاط من التوق۔ بچہ گرانے کی عادی
اونٹنی۔

ملع (ف) ملعا واملع الشاة: بکری کی
کمال اتارنا۔ ملع الفصيل ائمة: دودھ پینا۔
املع الشى: چھین لینا۔ اچک لینا۔
ملعت واملعت واملعت واملعت
الثاقفة: اونٹنی کا تیر دوڑنا۔

الملع۔ مہ۔ اور کہا جاتا ہے "هم عليه ملع
واحد" وہ سب اس کی دشمنی پر جمع ہیں۔
المليع ج ملع والمليع۔ تیز رفتار گھوڑا یا
اونٹنی المليع۔ لہذا اور ہر حرکت کرنے والا۔
جمل ملوع۔ تیز رفتار اونٹ۔ مؤنث ملوع
عقبات ملوع: تیزی سے بچنے والا عقاب۔
الملاع والمليع۔ بے گاس کا یا بان۔
ملاع مملعة بالكلام: ناشائستہ گفتگو سے
مزارح کرنا۔

تملع في كلامه: بیوقوف بننا۔
تعالق به: حسرت کرنا۔
الملع ج املاغ والمالع ج ملاغ
والاملاغ مؤنث ملعاء ج ملع۔ فحش کلامی
کرنے والا۔ بدکار۔ بیوقوف۔
الملوغة۔ بیوقوفی۔ فحش کلامی۔
مليقة (س) ملقا و ملق لہ و مالمقة۔ چالوسی
کرنا۔ خوشامد کرنا۔ ملق الخاتم من الإصبع:
ڈھیل ہونا۔

ملق (ن) ملقا الشى: مٹانا۔ نرم کرنا۔
القوب: کپڑا دھونا۔ ة بالنعصاء: لاشی
سے مارنا۔ ملق الولد ائمة: دودھ پینا۔
الزجل: تیز چلنا۔ الجارية: جماع کرنا۔
ملق الأرض او الحائط: زمین یا دیوار کو
کرنی سے گلاری کرنا۔ ة بالنعصاء: لاشی
سارنا۔
ملق: جملع ہو جانا۔ القوب: کپڑا دھونا۔
الذهر ماله: ضائع کرنا۔

تملق تملقا و تملقا: الزجل وللرجل
چالوسی کرنا۔ تملقت المرأة العنك يفتها:
چبانا۔

املق واملق: نرم وچکدار ہونا۔ مئمة:
بچ لگانا۔ املق الحضاب: حضاب کا چھوٹ
جانا۔

املق الشى: نکلانا۔
استملق الولد ائمة: دودھ پینا۔
الملق۔ مہ۔ دوستی۔ بڑی مہربانی۔ دعا۔ ہموار
زمین۔ تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے "لهذا القوس
ملق"۔ اس گھوڑے میں تیز رفتاری ہے۔

الملق والملاق۔ بہت چالوسی کرنے والا۔
الملق: کمزور۔ فوس ملق: گھوڑا جس کی رفتار پر
اعتماد نہ کیا جائے۔ مؤنث ملقة۔
الملق: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے "رجل او فوس
مليق"۔ تیز رفتار مرد یا گھوڑا۔
الملقة۔ چکنا چکر۔

المالق والملق والملاقة۔ بیگا۔ المالق:
کرنی۔ (دخیل)
الملاق۔ بہت محتاج۔ بہت چالوسی و خوشامد
کرنے والا۔

ملك (ض) ملكا و ملكا و ملكا و ملكة و
مملكة و مملكة و مملكة الشى: مالک ہونا
— على القوم: غالب ہونا — على
فلان أمره: کسی کے کام پر حاوی ہونا —
نفسه: قابو رکھنا — الممزة: نکاح کرنا

— ملكا العجین: اچھی طرح سے گوندھنا۔
ملك الشى: مالک بنانا۔ ملك القوم فلانا
عليهم: بادشاہ بنانا — ة امرأة: نکاح کرنا۔
ملك فلانا أمره: کسی کو اس کے حال پر چھوڑ
رہنا۔ ملكت الممزة أمرها: طلاق کا اختیار دے
رہنا۔

ملك العجین: اچھی طرح گوندھنا۔
ملك الشى: مالک بنانا۔ املك القوم فلانا
عليهم: بادشاہ بنانا — فلانا أمره: کسی کو
اس کے حال پر چھوڑ رہنا — ة الممزة: نکاح
کرنا۔

تملق واملق الشى: مالک ہونا۔

تملك على القوم: بادشاہ بنانا۔

تملك عن كذا: اپنے نفس پر قابو رکھنا۔ کہا
جاتا ہے "ما تملك أن فعل أو عن أن فعل
ذلك" یعنی فلاں فعل کے کرنے سے وہ اپنے
آپ کو نہیں روک سکا۔

الملك۔ بادشاہ۔ ج ملوک و أملاك۔

الملك۔ ملکیت۔ ج أملاك و ملوک۔

قدرت کاملی مٹا کر دانا۔ تموز پانی۔

ملك الدابة: چارپائے کی ٹانگیں اور
گردیں۔ واحد مولاک۔ کہا جاتا ہے "مالة ملك
و ماله ملك" یعنی اس کے پاس کوئی چیز نہیں
جس کا وہ مالک ہو کہا جاتا ہے "هذا ملك
يبيعني" یعنی میں اس کا مالک ہوں اور وہ میرے
قبضہ اور تصرف میں ہے "وليس لئمة ملك" اس
کے پاس پانی نہیں "وأعطاني من ملكه" اس
نے مجھ کو اس میں سے دیا جس پر وہ قادر ہے۔
وظل ملكه اس کی غلامی طویل ہے "و ملك
الظريق" راستہ کا وسط یا کنارہ۔ سارے معانی
میں نیم کو تینوں حرکتیں ہیں۔

الملك۔ فرشتہ۔ انسان جس کا مالک ہو۔ کہا
جاتا ہے "مالة ملك" یعنی اس کے پاس کوئی چیز
نہیں جس کا وہ مالک ہو۔

الملاک۔ ملاک کا مخفف۔ بمعنی فرشتہ۔ ج
ملائكة و ملائكة۔ الملاک۔ اقتدار۔ و
ملاك الأمر: سارا۔ سرمایہ۔ بقا۔ کہا جاتا ہے
القلب ملاک الجسد: دل جسم کے لیے
سرمایہ بقا ہے۔

الملاک۔ مٹی۔ ملاک الأمر: سارا۔ سرمایہ
بقا۔

الملک۔ اللہ تعالیٰ۔ بادشاہ۔ صاحب قوت و
اقتدار۔ ج ملوک و أملاك۔

الملک۔ ملک کی طرف نسبت۔ مؤنث
ملککة۔

الملکة الملکة: ملکیت۔

الملکة۔ ملکیت۔ کہا جاتا ہے "هو ملكة
يعيشي" یعنی میں اس کا مالک ہوں اور اس پر
قادر ہوں۔ الملکة: وہ صفت جو نفس کے اندر
راخ ہو جائے اور جب تک راجح نہ ہو اسے حال

(۵) بدل۔ جیسے اَنْزَلْنَاهُ بِالْخَيْلِ الدُّنْيَانِ
الْأَخْيَرَةِ۔

(۶) مرادف یا جیسے يَنْظُرُونَ مِنْ ظَرْفِ خَفِيٍّ۔

(۷) معنی فصل کا فائدہ بھی دیتا ہے جیسے وَاللّٰهُ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔

(۸) زائدہ بھی ہوتا ہے اور زائدہ ہونے کیلئے
تین چیزیں شرط ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے نفی
نہی یا استہمام ہو۔ دوسرے یہ کہ مجرور کمرہ ہو۔

تیسرے یہ کہ مجرور فاعل یا مفعول بہ مبتدا ہو جیسے
”فَاجَاءَ نِي مِنْ زَجَلٍ“ ”وَبَلَّ صَمْرُوتٌ مِنْ
أَخِيٍّ“ ”وَمَقَامِي الدَّارِ مِنْ أَخِيٍّ“ ان کے علاوہ

اور بھی معانی ہیں جو قرینہ سے مفہوم ہوتے ہیں۔
مَنْ اِسْمٌ شَرْطٌ جَازِمٌ هُوَ جَيْسٌ مَنِ يَعْمَلُ خَيْرًا

يُعْزِئُهُ اِسْمٌ اِسْتِمَامٌ جَيْسٌ مَنِ اَتَى اِسْمٌ مَوْصُولٌ
اَكْثَرُ اِسْتِمَالِ ذَوِي الْعُقُولِ كَيْلَيْهِ هُوَ تَا هُوَ جَيْسٌ

يَسْجُدُ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
الْاَرْضِ: كَمَرَةٌ مَوْصُوفَةٌ جَيْسٌ مَوْزُوتٌ بِمَنْ

مُعْجَبٌ لَكَ۔
مَنْ (ن) مَتَّوٍ مَبْتَنِى عَلَيَّ بِكَذَا: بھلائی کرنا۔

مَنْ (ن) مَتَّوٍ مَبْتَنَةً وَمَتَّنَ وَمَتَّنًا: عَلَيَّ مَبْتِنًا
صَنَعَ: احسان بنانا۔ وَمَتَّنَ عَلَيَّ بِكَذَا: بھلائی

کرنا۔ وَمَتَّنَ فَلَانًا: فلاں کے اسمی چیز پر پہنچانا۔
مَنْ (ن) مَتَّوٍ اَمَّنٌ وَتَمَنَّى الرَّجُلُ: کمزور

کرنا۔ قوت زائل کرنا۔ مَنْ الْحَبْلِ: کاٹنا۔ مَنْ
الشَّيْءِ: کم ہونا۔ الثَّاقِفُ: سزری دجہ سے

لاغر کرنا۔ تَمَنَّى فَلَانًا وَتَمَنَّى عَلَيَّ:
احسان بنا کر تکلیف پہنچانا۔

مَتَّنٌ تَمَنَّيْتُ الثَّاقِفَ وَبِهَا: اونٹنی کو سزری دجہ
سے لاغر کرنا۔

مَانَةٌ مَمَانَةٌ: کسی کی حاجت روائی کے لیے آنا
جانا۔

اِسْتَمْتَعْتُ: طالب احسان ہونا۔

الْمَنْ: مہ۔ احسان۔ انعام۔ ایک قسم کی ہنیم
ہے جو پتھروں اور درختوں پر شہد کے مانند جم کر

خٹک ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ نَبِيٍّ اِسْرَائِيلَ: وہ چیز
جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل پر نازل کیا تھا

تاکہ اس سے وہ اپنی غذا حاصل کریں۔ الْمَنْ: وہ
رطل کا پیمانہ یا میزان۔ ج اَمْتَانِ۔

أَمَلِي اِمْلَاءٌ: اللّٰهُ فَلَانًا عَمْرُوهُ: عمر طویل کرنا
اور دیر تک نفع اٹھانے دینا۔ البَعِيْرُ و

لِيَبْعِرَ: بندھن کو ڈھیل کرنا۔ اللّٰهُ الطَّالِمِ
وَأَلَةٌ: مہلت دینا۔ عَلَيْهِ الْكِتَابُ: بول کر

لَهُ فِي عَيْتِهِ: گراہی میں زمانہ دراز تک
چھوڑنا۔

عَلَيْهِ الرَّمْنُ: لہبا ہونا۔
اِسْتَمْلَيْتُهُ الْكِتَابُ: الما کرنے کی درخواست

کرنا۔
الْمَلَأَ: جنگل۔ کشادہ زمین۔ گرم راکھ۔ زمانہ

دراز۔ ج اَمْلَاءٌ۔
الْمَلُونُ: رات دن واحد ملا۔

الْمَلَاوَةُ وَالْمَلْوَةُ: بتلث المصم: زمانہ
دراز۔

الْمَلِيَّةُ: زندگی کی مدت۔
الْاِمْلَاءُ: مہ۔ مہلت دینا۔ تاخیر کرنا۔ جو الما کیا

جائے۔ ج اَمَالٍ وَاَمَالِيٍّ۔
الْمَلَاةُ: سگریہ تاک۔ بیابان۔ ج مَلَأَ۔

الْمَلِيَّةُ: زمانہ طویل۔ کہا جاتا ہے ”اِنْتَظَرْتُهُ
مَلِيًّا“ زمانہ دراز تک میں نے اس کا انتظار کیا۔ ”و

مَرَّ عَلَيَّ مِنَ اللَّيْلِ“ رات کا تالی حصہ گزر گیا۔
اور بقول رات کا ایک حصہ گزر گیا جس کی کوئی حد

معیں ہیں۔
الْاَمَالِي: الما کے ہوئے اقوال وغیرہ اور یہ

أَمَلِي الْكِتَابُ کے مصدر الاملاء کی جمع ہے۔
الْمَلِيُونُ فِي الْعَدَدِ: دس لاکھ۔ ج مَلَأَ مِنْ

جَم: مرکب ہے من دما استقامیہ سے۔
الْمَامُوسُ وَالْمَامُوسَةُ: آگ۔ آتش دان۔

الْمَامُوسَةُ: بد زبان بیوقوف عورت۔
مِنْ: حروف جر میں سے ہے۔ معانی ذیل میں

مستعمل ہے۔

(۱) اِبْتِدَاءُ غَايَةِ زَمَانِي جَيْسٌ مَرَضٌ مِنْ يَوْمِ
الْحَمْفَةِ۔

(۲) اِبْتِدَاءُ غَايَةِ مَكَالِي جَيْسٌ سَارٌ مِنْ يَنْزُوتِ۔

(۳) تَجْمِيعٌ: جَيْسٌ جَنْهَمٌ مِنْ اَحْسَنٍ وَجَنْهَمٌ
مِنْ اَسَاءَ۔
(۴) تَعْلِيلٌ: جَيْسٌ وَمَا حَاطَتْ اِيْتَهُمْ اَعْرَفُوا۔

کہتے ہیں۔
الْمَالِكُ: فا۔ بارشاہ۔ ج مُلْكٌ وَمَلَاكٌ: ابو

مالک: بھوک یا بڑھاپا۔ مَالِيكَ الْحَوْرِيْنَ: بگلا۔
الْمَلَاكَةُ وَالْمَلَاكَةُ وَالْمَلُوْكَةُ: ملکیت۔

الْمَلِكُوْتُ: بادشاہی۔ عزت و قدرت۔
الْمَلِكُوْتُ السَّمَاوِي: آسمان میں قدسیوں کی

جگہ۔
الْمَمْلُوكَةُ وَالْمَمْلُوكَةُ: شاہی شان و شوکت۔

بادشاہی۔ ج مَمَالِيكُ۔
الْمَلِيْكُ: بادشاہ۔ ج مُلْكَاةٌ: مَلِيْكُ

التَّخْلِ: شہد کی کھپوں کی ملکہ۔ ج مُلُوْكُ۔
الْمَلِيْكَةُ: محیفہ۔

الْاَمْلُوْكُ: اسم جمع ہے بمعنی مُلُوْكُ۔ ایک
ریگستانی جانور ہے جو گرگٹ کے مشابہ ہوتا ہے۔

الْمَمْلُوْكُ: مہم۔ غلام۔ ج مَمَالِيكُ: اور اسی
سے ہے مَمَالِيكُ مَضْرُوبٌ جو کسی غلاموں کی

ایک جماعت تھی جو مصر غالب آئی تھی اور
مالک بن نبی تھی۔

مَمْلُكٌ: تیز دوڑنا۔ مَمْلُكَةُ الْمَرَضِ: مضطرب
کرنا۔

تَمْلَحَلٌ: غم یا مرض کی وجہ سے ستر کر ٹھیس
بدلنا۔ الْجَالِيْسُ: کبھی ایک پہلو پر ٹیک

لگانا کبھی دوسرے پر۔
الْمَمْلُكَةُ: مہم یا کھپوں کی سوئذ۔

الْمَمْلُكُ: سرمہ کی سلائی۔ تاک کا سوراخ
مَمْلُكٌ الْبَعِيْرُ وَالْقَلْبُ: اونٹ اور لومڑی کا

ذکر۔
الْمَمْلُكِي: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے نَاقَةٌ

مَمْلُكِي: تیز رفتار اونٹنی۔
الْمَلْمَلُخُ لِيَا: الجولیا۔

مَلَا يَمْلُكُوْ مَلُوًا الْبَعِيْرُ: اونٹ کا تیز چلنا۔
دوڑنا۔

مَلَأَهُ اللّٰهُ عُمْرُوهُ: عمر طویل کرنا اور دیر تک
نفع اٹھانے دینا۔ مَلَأَهُ اللّٰهُ حَبِيْبَةً: اللہ تعالیٰ اس

کو دیر تک حبیب سے نفع اٹھانے دے۔
مَلِيٌّ وَتَمَلَّى عُمْرُوهُ: عمر طویل ہونا اور فائدہ

اٹھانا۔ مَلِيٌّ وَتَمَلَّى حَبِيْبَةً: اس نے اپنے
حبیب سے دیر تک نفع اٹھایا۔

الْمُنَّةُ - قوت۔ ضعف۔ ج۔ مثن۔
 المُنَّةُ - مہ۔ احسان۔ کہا جاتا ہے "لَهُ عَلَيَّ مِثَّةٌ
 او مِثْنٌ" اس کا میرے اوپر احسان یا احسانات
 ہیں۔ المِثَّةُ - اسم ہے مَثْرٌ عَلَيْهِ سے اور اسی سے
 ہے المِثَّةُ تَهْدِمُ الصَّبِيحَةَ احسان کا جانا احسان
 کو ضائع کر دیتا ہے۔ ج۔ مثن۔
 المِثْنَةُ - مکرزی۔ ماہہ۔ مٹی۔
 المِثْنُونُ - موت (مؤنٹ ہے اور کبھی مذکر بھی
 استعمال ہوتا ہے) کہا جاتا ہے "ذَهَبَتْ بِهِمُ
 المِثْنُونُ" موت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ زمانہ۔
 زَيْبُ المِثْنُونِ - حواہت زمانہ۔
 المِثْنُونُ وَ المِثْنُونَةُ - بہت احسان جتانے والا۔
 تاء مبالغہ کے لیے ہے۔ مؤنث مِثْنُونُ۔ المِثْنُونَةُ :
 مکرزی۔
 المِثْنَانُ - بہت احسان کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے
 اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ بہت احسان جتانے
 والا۔ مؤنث مِثْنَانَةٌ۔
 المِثْنِينَ - کمزور۔ قوی۔ غبار یا پلکار آگندہ غبار۔
 ج۔ مثن و ائمتہ۔
 المِثْنُونُ - منع۔ کٹا ہوا۔ کمزور۔ قوی۔ ہر چیز کا
 بہترین حصہ جو کسی کے پاس ہو۔ کہا جاتا ہے
 "بَلَّغْتُ مِثْنُونَهُ"۔
 مَنَّا (ف) مَنَّا الْجُلْدُ : کھال کو دباغت دینا
 — فُلَانًا : فعل کی موافقت کرنا۔
 المِثْبِقَةُ - کھال جس کو پہلی بار دباغت دی
 جائے۔ دباغت دینے کی جگہ۔
 المِثْبَاةُ - کالی زمین۔
 المِثْبِقِيُّ وَ المِثْبِقِيَّةُ - جنگ میں قلعہ کی
 دیوار پر پتھر وغیرہ بھینکنے کی مٹین۔ ج۔ مَجَابِقِ وَ
 مَجَابِقِيَّةٍ وَ مَجَابِقِيَّاتٍ۔
 مَنَحَهُ (ف) مَنَحًا الشَّيْءَ : دینا۔ عطا کرنا
 — هُوَ التَّاقَةُ وَ كُلُّ ذَاتِ لَبَنِ : اونٹنی یا دودھ
 والے جانور کو فائدہ اٹھانے کیلئے دینا۔ صفت
 مفعولی المِنْحَةُ وَ المِثْبِقَةُ۔ ج۔ مَنَحٌ وَ مَنَاحٌ۔
 مَانِحَةٌ مَنَاحًا وَ مَانِحَةٌ : لگا تار عطیہ دینا۔
 مَانِحَتِ العَيْنِ : لگا تار آنسو بہانا —
 التَّاقَةُ : اونٹنی کا جاڑے کے زمانہ میں جبکہ اور
 اونٹنیوں کا دودھ دینا ختم ہو گیا ہو دودھ دینا۔

أَمْنَحَتِ التَّاقَةُ : اونٹنی کا پچھنے کے قریب
 ہونا۔ صفت مُنَحٌ۔
 اِمْتَنَحَ الزَّجَلُ : عطیہ لینا۔ اور کہا جاتا ہے
 "أَمْتَنَحُ مَا لَمْ يَلْنِي وَهِيَ مَالٌ كَارِزِقٌ رِيَاغِيَا۔
 اِمْتَنَحَ المَنْبِيحُ : عاریت پر لینا۔
 نَمَتَّحَ المَالُ : دوسرے کو کھانا۔
 اسْتَمْتَنَحَهُ : عطیہ طلب کرنا۔
 المِشْحَةُ - عطیہ۔ ج۔ مَنَحٌ۔
 المِشْحُ - بہت دینے والا۔
 المِشْوَحُ - جاڑے کے زمانہ میں اونٹنیوں کے
 دودھ ختم ہو جانے کے بعد دودھ دینے والی اونٹنی۔
 المِشْبِيحُ - جوئے کے محروم تیروں میں سے ایک
 تیر۔
 المِشْبَانِجُ - جاڑے کے زمانہ میں دودھ دینے
 والی اونٹنی۔ مَطْرٌ مُشْبَانِجٌ : لگا تار بارش۔ رِيْبُجٌ
 مُشْبَانِجٌ : ہوا جس کی بارش نہ رکے۔
 مُشْدُوْمَذٌ - کبھی ان کی میم کمسور ہوتی ہے ان کی
 تین حالتیں ہیں۔
 پہلی یہ کہ دونوں حرف جریں۔ اگر زمانہ ماضی ہو
 تو مں کے معنی میں جیسے "مَا زَ اَيْتُهُ هَذَا يَوْمَ
 الاَحْيَا" اور اگر زمانہ حال ہو تو مں کے معنی میں
 جیسے "زَ اَيْتُهُ هَذَا شَهْرَنَا" یعنی اس موجودہ مہینہ
 میں۔ اور اگر معنی محدود ہوں تو مں اور الی کے
 معنی میں جیسے مَا زَ اَيْتُهُ هَذَا فَلَيْتَةَ اَيَّامٍ یعنی میں نے
 اس کو تین دن سے یا تین دن تک نہیں دیکھا۔
 دوسری یہ کہ اسم ان دونوں کے بعد مرفوع ہو
 جیسے "مَا زَ اَيْتُهُ هَذَا يَوْمَانِ" کہا گیا ہے کہ یہ دونوں
 اس حالت میں طرف ہیں جن کی اضافت جملہ کی
 طرف ہے جس میں فعل کو حذف کر دیا گیا ہے اور
 قائل کو باقی رکھا گیا ہے اور اصل یوں ہے هَذَا كَانَ
 يَوْمَانِ۔
 اور تیسری حالت یہ ہے کہ ان کے بعد جملہ فعلیہ
 یا اسمیہ ہو جیسے "مَا زَلْتُ اَبْغِي المَالُ مَدَانَا
 يَابُغٌ" میں جب سے جوان ہوا ہوں مال ہمیشہ
 تلاش کرتا رہا۔ مشہور یہ ہے کہ یہ دونوں اس وقت
 طرف ہیں جن کی اضافت جملہ کی طرف ہے اور
 هَذَا مُشْدُوْمَذٌ کا مخفف ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اجتماع
 ساکنین کے وقت هَذَا کی زال کو ضمہ دیتے ہیں

جیسے هَذَا اليَوْمِ۔ اگر اصل میں ضمہ نہ ہو تا تو کسرو
 دیتے۔
 المِشْمَةُ - کس سال۔
 المِشْسُ - خوشی۔
 مِشْعَةٌ (ف) مِشْعَةٌ مِشْعَةٌ الشَّيْءِ وَمِشْعَةٌ وَعْتَهُ :
 محروم کرنا۔ روکنا — هُوَ القَاضِي عَنِ
 المِشْرَاثِ : روکنا — هُوَ عَنِ الدَّعْوَى : باز
 رکھنا۔ منع جازہ : حمایت کرنا اور تکلیف سے
 بچانا۔
 مِشْعٌ (ک) مِشْعَةٌ وَمِشْعَةٌ : قوی ہونا۔
 — الحِصْنُ : قلعہ تک پہنچ دشوار ہونا
 — الشَّيْءُ : بلند مرتبہ و دشوار ہونا۔ صفت
 مِشْبَعٌ۔
 مَانِعَةٌ : حمایت کرنا — هُوَ الشَّيْءُ : جھگڑا کرنا
 اور منع کرنا۔
 تَمَنَعٌ وَ اِمْتَنَعٌ عَنِ الشَّيْءِ : رکنا۔ اِمْتَنَعُ
 الشَّيْءُ : ناممکن الحصول ہونا۔ تَمَنَعٌ وَ اِمْتَنَعُ
 بِقَوْمِهِ : حفاظت میں آنا۔ توت پکڑنا۔
 تَمَانَعًا : باز رہنا — عَنِ انْفُسِهِمَا :
 ایک دوسرے کی حمایت کرنا۔
 المِشْنَعُ - مہ۔ کیکڑا۔ ج۔ مِشْنُوعٌ۔
 زَجَلٌ مِشْنَعٌ : اپنے نفس کو باز رکھنے والا سرد۔
 المِشْنَعَةُ - عزت۔ قوت۔ ج۔ مِشْنَعَاتٌ اور کہا جاتا
 ہے "لَهُم مِشْنَعَاتٌ" ان کے ایسے مضبوط قلعے ہیں
 جن پر دشمن قادر نہیں ہو سکتا۔
 المِشْنَعَةُ وَ المِشْنَعَةُ - قوت۔ شوکت۔
 المِشْنَاعَةُ - مہ۔ — فِي الطَّبِ : ایسی قوت
 جو جسم کو حاصل ہو جائے اور آئندہ امراض سے
 محفوظ رکھے۔
 المَانِعُ ج مَانِعُونَ وَ مَنَعَةٌ : نا۔ کجوس۔ بخیل
 ج مَوَانِعُ : روکنے والا۔
 مَنَاعٌ - اسم فعل ہے بمعنی اِمْنَعُ۔
 المَنْعُوعُ وَ المَنْعَاعُ - بہت زیادہ منع کرنے والا۔
 المَنْعَاعُ : کجوس۔ بخیل۔
 المَنْعِيُّ - اسم ہے بمعنی اِمْنَعُ۔
 المَنْعِيَّةُ - غالب و قوی کہ جس پر کوئی قادر نہ ہو
 سکے۔ مؤنث مَنِيعَةٌ۔ حِصْنٌ مَنِيعٌ : بلند و مضبوط
 قلعہ جس پر پہنچنا دشوار ہو۔

مَتَابَعْتُو مَتَا الرَّجُلِ: آزمائش کرنا۔ صفت
مفعول مَتَّبَعْتُو بِكَذَا۔

الْمَتَا: جانا یا وزن مساوی دور مل۔ شی
مَتَوَانٌ وَمَتَانٌ اِمْتِنَانٌ وَأَمْنٌ وَمُتْنٌ اور اسی
معنی میں الْمَتَانَةُ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے ”ذاریٰ مَتَا
دَارِهِ“ میرا گھر اس کے گھر کے مقابل ہے۔
مَتَاةٌ: مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان
قبیلہ بَدِیل اور خزاعہ کے ایک بیت کا نام۔
الْمُتَوَاتِرَةُ: آرزو۔

مَتَى يَمْنَعُنِي مَتَى اللَّهُ الْخَيْرُ لِفُلَانٍ: مقدر
کرنا۔ مَتَاةٌ: آزمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے مَتَاةُ اللَّهِ
بِكَذَا یعنی اللہ اس کو فلاں چیز میں جتلا کرے۔
مَتَى لِيكَذَا: توفیق دیا جانا — بَكَذَا:
آزمائش کیا جانا۔

مَتَى تَمَيُّبَةُ الرَّجُلِ الشَّيْءِ وَبِالشَّيْءِ: آرزو
دلانا۔
مَتَى مَتَانَاةُ الرَّجُلِ: مدارات کرنا۔ مہلت
دینا اور انتظار کرنا۔ بدلہ دینا — الرَّؤْفِيُّقِ:
باری باری سوار ہونا۔

أَفْنَى اِمْتِنَاءِ الدَّمَاءِ: خون بہانا۔ گرانہ —
الْحَاجُّ: حاجیوں کا معنی میں آنا یا نازل ہونا۔
أَفْنَى: جہنمی گرانہ۔
اسْتَعْنَى بِالْيَدِ: طلق لگانا۔ بغیر جماع کے منی
نکلانا۔

اِمْتَنَى اِمْتِنَاءَ الشَّيْءِ: جھوٹ گھرنا —
الْحَاجُّ: حاجیوں کا معنی میں آنا یا نازل ہونا۔
تَمَعَّى الشَّيْءِ: ارادہ کرنا — الْكِتَابُ:
پڑھنا — الرَّجُلُ: جھوٹ بولنا —
الْحَدِيثُ: جھوٹی بات گھرنا۔

الْمَتَيْتَةُ ج مَتَايَا وَالْمَتَى: موت۔ المَتَى:
ارادہ۔ تقدیر الہی۔ تم کہتے ہو ”أَنَا رَاضٍ بِمَعْنَى
اللَّهِ“ یعنی میں تقدیر الہی پر راضی ہوں۔ اور کہا
جاتا ہے ”هُوَ مَتَى بِمَعْنَى مَبِيلٍ“ وہ مجھ سے ایک
میل کے اندازہ پر ہے۔

الْمُنْيَةُ وَالْمُنْيَةُ ج مَتَى وَمَتَى وَالْأَمْنِيَّةُ ج
أَمَانٌ وَأَمَانِي: آرزو۔ مطلوب۔ الامنیۃ:
جھوٹ۔
الْمُتَمَتِّعَاتُ: تمنا میں۔

مَتَى: اسم فعل بنی علی اسکن۔ بمعنی رک جا اور
کبھی کہا جاتا ہے مَتَى۔

مَتَدَانٌ مَتَا الْأَيْلِ: اونٹ کے ساتھ نرمی برتنا۔
مَتَهَةٌ (س) مَتَهَةٌ الشَّيْءِ: نرم ہونا۔
المَتَهَةُ: نرمی، تازگی، خوبصورتی، خوبصورت (س)
— وَالْمَتَهَةُ: سیر و سفر کا ساتھی۔ امید۔ المَتَهَةُ:
رفیق۔ نرمی۔

المَتَهْتُ وَالْمِهْتَارُ: امیر والی (دخیل)
مَهَجٌ (ف) مَهَجًا بیماری کے بعد چہرے پر
رونق آنا — الْوَلَدُ أُمَّةٌ: دودھ پینا —
الْحَاوِيَةُ: جماع کرنا۔
أَمْتَهَجُ الرَّجُلُ: خون کھینچ لیا جانا۔

الْمَاهِجُ: نا۔ خالص دودھ۔ پتلادودھ یا بربلی۔
المِهْجَةُ: خون یا دل کا خون۔ روح۔ و مَهْجَةٌ
مَجْلُ شَيْءٍ: ہر چیز کا ہترا اور خالص۔ ج مَهْجٌ و
مَهْجَاتُ۔

الْأَمْهَجُ وَالْأَمْهَجُجُ وَالْأَمْهَجَاجُ: خالص
دودھ۔
کہا جاتا ہے رَجُلٌ مَمْهَجٌ الْبَطْنِ: ڈھیلے پیٹ
کا سرد۔
مَهْدٌ (ف) مَهْدًا الْفِرَاشُ: بستر بچھانا۔ لِيَتَفَسَّحَ:
کمانی کرنا۔ کام کرنا۔

مَهْدٌ الْفِرَاشُ: بستر بچھانا — الْأَمْزُ:
درست رہنا اور کرنا — لَهُ الْعُدْرُ: عذر خواہی
کرنا — لِفُلَانٍ عُدْرَةٌ: قبول کرنا —
لِيَتَفَسَّحَ خَيْرًا: اپنے لیے بھلائی مہیا کرنا۔
تَمَهَّدَ الْفِرَاشُ: بستر بچھانا — لَهُ الْأَمْزُ:
آسان ہونا — الرَّجُلُ: قادر ہونا۔

اِمْتَهَدَ الشَّيْءُ: بچھنا — الرَّجُلُ: کمانی
کرنا کام کرنا۔
اسْتَمَهَدَ الْفِرَاشَ: بستر بچھانا۔
المَهْدُ: گوارہ۔ پست زمین ج مَهْوُودٌ۔
المَهْدُجُ مَهْدَةٌ وَأَمْهَادٌ وَالْمَهْدَةُ ج مَهْدٌ:
نرم و پست، ہموار زمین۔

المَهَادُ: بچھونا۔ پست زمین۔ ج مَهْدٌ وَمَهْدُو
أَمْهَدَةٌ۔
المَهْدِيدُ: خالص مسک۔
المَمْهَدُ: مفعلاً مَمْهَدٌ: پانی نہ گرم نہ سرد۔

مَهْرٌ (ف) مَهْرٌ أَوْ مَهْوُورٌ أَوْ مَهَارٌ أَوْ مَهَارَةٌ
الشَّيْءِ وَفِيهِ وَبِهِ: حاذق ہونا۔ صفت ماہر۔ کہا جاتا
ہے ”مَهْرٌ فِي الْعِلْمِ“ یعنی علم میں حاذق و ماہر
ہوا۔ فِی صِنَاعَتِهِ: تجربہ کار و ماہر ہونا۔

مَهْرٌ (ف) مَهْرٌ أَوْ مَهْرٌ الْمَرْأَةُ: مہر بتایا
مہر مقرر کرنا۔ و أَمْهَرَهَا: مہر کے بدلے میں کسی
شخص سے نکاح کرنا۔ صفت مفعول مَهْرَةً۔
وَأَمْهَرَتِ الْفَرَسَ: بچھیرے یا بچھیری والی ہونا۔
مَهْرٌ: بچھیرا لگایا حاصل کرنا۔

مَاهِرَةٌ مَهَارَةٌ: ماہر ہونے میں مقابلہ کرنا۔
تَمَهَّرَ: ماہر ہونا حاذق ہونا۔ تہرنا۔
المَهْرُ: مہر۔ نکاح کا عوض مالی ج مَهْوُورٌ و
مَهْوُودَةٌ اور کہا جاتا ہے ”هَذَا مَهْرٌ ذَلِكُ“ یہ اس
کے بدلے میں ہے۔

المَهْرُ: بچھیرا۔ گھوڑی گدھی کا پسلا بچتہ۔ ج
مِهَارٌ وَأَمْهَارٌ وَمَهَارَةٌ مَهْرٌ ج مَهْرَةٌ ج مَهْرٌ
و مَهْرَاتٌ و مَهْرَاتُ: المَهْرُ: درمیان سینہ کی
ایک ہڈی۔ اندر این کا پھل۔ کبوتر کا بچتہ۔ ج
مِهْرَةٌ۔

المَهْرَةُ مِنَ التَّسَاءِ: بہت مردالی عورت ج
مَهَائِرُ۔
المَاهِرُ: حاذق۔ اچھا تہرے والا۔ ج مَهْرَةٌ۔
المَهْرِيَّةُ: سرخ گیسوں۔ الأَيْلُ المَهْرِيَّةُ: ہمرہ
بن حیدان کی طرف منسوب اونٹ جن کے
متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ تیز رفتاری میں کوئی ان
کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ج مَهَارِيٌّ و مَهَارِيٌّ و
مَهَارِيٌّ۔

المِهْرِيُّجَانُ: پارسیوں کی ایک عید۔
مَهْرَةٌ (ف) مَهْرَةٌ: بیدہ۔ روغ کرنا۔ بھٹانا۔
مَهْرَةٌ (ف) مَهْرَةٌ: جلانا کھرجنا۔
اِمْتَهَشَ: جلنا۔

مَهْصُ الْقَوْبِ: کپڑا پاک صاف کرنا۔ سفید
کرنا۔
تَمَهَّصَ فِي الْمَاءِ: پانی میں گھسنا۔
اِمْتَهَّصَتِ الْأَرْضُ: بے نباتات ہونا۔ صفت
مَهْصَاءٌ۔

مَهَقٌ (س) مَهَقًا: بہت سفید ہونا۔
مَهَقَتْ (ف) مَهَقًا الْخَيْلُ: گھوڑے کا

دورثا۔ مَهَقٌ الْقَفِصِيلُ: اونٹ کے پتہ کو پانی پانا۔
تَصَهَّقُ الشَّرَابَ: تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد
پینا۔

المَهَقُ: مہ پانی پر کی سبزی۔
الْمَهَقُ: بغیر چمک کے بہت سفید جیسے چونا۔
مَوْنَتٌ مَهْقَاءً: ج مَهَقٌ۔

المَهَقَةُ: بغیر چمک کے بہت سفید رنگ۔
مَهَكَ (ف) مَهَكَوْا وَمَهَكَ الشَّيْءُ: خوب
پینا۔ باریک پینا۔ مَهَكَةٌ: نرم و چمکدار کرنا۔

مَهَكَ فِي الشَّرْبِ: جلدی کرنا۔
تَمَهَكَ فِي الْعَمَلِ: اچھے طریقہ سے کرنا۔
ہاتھ سے متحرک کرنا۔

إِمْتَهَكَ الرَّجُلُ: کم گوشت والا ہونا۔
فِي الْعَدُوِّ: کوشش کرنا۔
تَمَاهَكَ الْقَوْمَ: باہم جھگڑنا۔

مَهَكَةُ الشَّبَابِ وَمَهَكَةُ: جوانی کی رونق و
تروتازگی۔
المَهْوُوكُ: نرم مکان۔

المُمْتَهَكُ وَالْمُمْتَهَكَةُ: جوانی سے بھرپور
کما جاتا ہے شَابٌ مُمْتَهَكٌ۔

المُمْتَهَكُ: سب سے ڈول۔
مَهَلٌ (ف) مَهَلًا وَمَهَلَةً وَتَمَهَّلَ فِي
الْعَمَلِ: اطمینان سے بغیر جلد بازی کے کام کرنا۔

مَهَلٌ (س) مَهَلًا الرَّجُلُ: بھلائی میں پیش
قدمی کرنا۔ صفت ماہل۔

أَمَهَلَهُ وَمَهَلَهُ الدِّينَ: سہل دینا۔ أَمَهَلٌ وَ
مَهَلٌ الرَّجُلُ: نرمی برتنا۔ فِي الْأَمْرِ:
مبالغہ کرنا۔ عذر کرنا۔

إِسْتَمَهَلَهُ: سہل مانگنا۔

المَهْتَلُ وَالْمَهْتَلُ: مہ۔ نرمی آہستگی۔ سہت کی
پیپ۔ اور کہا جاتا ہے ”مَهْتَلًا وَعَلَى مَهْتَلٍ“ یعنی
ٹھہرا جلدی نہ کر اور یہ مصدر ہے جو فعل کے

قائم مقام ہے اور واحد تثنیہ جمع نہ کر مَوْنَتٌ سب
کے لیے ہے المَهْتَلُ: کسی شخص کے گزرے
ہوئے لوگ۔ سوار ہونے سے پہلے معاملہ کی

ہدایت۔ پیش قدمی۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ ذُو مَهْتَلٍ:
فلاں بھلائی میں پیش قدمی کرنے والا ہے۔

المَهْتَلُ: معدنی جو اہر جیسے چاندی تانبا لوہا

وغیرہ پھلکی ہوئی دھاتیں۔ پتلا قطران۔ زیتون کا پتلا
تیل۔ زیر۔ پیپ۔ یا خاص مردہ کی پیپ روٹی سے جو
راکھ بچھڑے۔

المَهْتَلَةُ: مہ۔ راکھ میں بقیہ چنگاری۔
آہستگی و نرمی۔ کہا جاتا ہے ”مَشَى عَلَى مَهْتَلَيْهِ“
وہ آہستہ آہستہ چلا۔ پتلا قطران۔ شمار۔ کہا جاتا ہے

”خَذِ الْمَهْتَلَةَ فِي أَمْرِكَ“ یعنی اپنے معاملہ میں
سلمان کو لو۔ ”وَ أَخَذَ عَلَى فَلَانٍ الْمَهْتَلَةَ“ یعنی وہ
اس سے عمریاد میں بڑھ گیا۔

المَهْتَلَةُ وَالْمَهْتَلَةُ وَالْمَهْتَلَةُ وَالْمَهْتَلَةُ: پیپ یا
خاص مردہ کی پیپ۔
المَمْتَهَلُ: فا۔ مِنَ الرَّجَالِ: لہبا۔

مَهْمًا اسم شرط جازم ہے۔ غیر عاقل کے لیے
استعمال کیا جاتا ہے اور ظرف زبان ہے جیسے مَهْمًا
يُرْزَى زَيْدًا كَرْمَةً: جب زید مجھ سے ملے گا میں

اس کا اکرام کروں گا اور ابھی غیر طرف ہوتا ہے
جیسے مَهْمًا تَفْعَلْ أَفْعَلْ: جو تو کرے گا میں کروں
گا۔

مَهْمَةٌ عَنِ السَّفَرِ: روکنا۔ مَهْمَةٌ فَلَانًا: مہ
مہ کہہ کے ڈانٹنا۔
تَمَهْمَةٌ عَنِ الشَّيْءِ: باز رہنا۔ رکنا۔

المَهْمَةُ وَالْمَهْمَةُ: دور کا جھگڑ۔ ویران
ملک۔ ج مہماہمہ۔
مَهْنٌ (ف) مَهْنًا وَمَهْنَةً وَمَهْنَةُ الرَّجُلِ:
خدمت کرنا۔

مَهْنٌ (ف) مَهْنًا: اپنا پیشہ کرنا۔
الرَّجُلُ: مارنا اور سختی کرنا۔ الْقَوْبُ: بھینپنا۔
بوسیدہ کرنا۔ الْجَارِيَةُ: جماع کرنا۔

مَهْنٌ (ك) مَهْنًا: حقیر و کمزور ہونا۔
مَاهَةٌ مُنْهَاهَةٌ: مشق کرنا۔
أَمَهْنَةٌ: کمزور کرنا۔ خدمت لینا۔

إِمْتَهَنَ الشَّيْءُ: حقیر کرنا۔ بوسیدہ کرنا۔
الرَّجُلُ: خدمت میں رکھنا۔ الرَّجُلُ:
خدمت میں مشغول ہونا۔

المِهْنَةُ وَالْمِهْنَةُ وَالْمِهْنَةُ وَالْمِهْنَةُ: کام کی
مہارت۔ خدمت۔ کہا جاتا ہے ”قَامَتِ الْمَرْأَةُ
بِمِهْنَةٍ بَيْنَهُمَا“ عورت اپنے گھر کے کام کاج کیلئے

مستعد ہوئی ”وَمَا مِهْنَتُكَ هَهْنًا“ یہاں پر تمسارا
کرنا۔

مہی پنہی و پنہی مہنہا و مہنی و مہنی
الشَّفْرَةُ أَوِ الْحَدِيدَةُ: پتلا کرنا۔ تیز کرنا۔ و مہنی
الشَّيْءِ ملح کرنا۔
إِسْتَهْمَى الْفَرَسَ: گھوڑے کو پوری رفتار پر
چھوڑ دینا۔ الْقَوْمَ: دشمن کی صفوں کو توڑ
دینا اور گلست دینا۔

کیا عمل ہے ”وَهُوَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ“ وہ اپنے
لوگوں کی خدمت میں مشغول ہے ”خَوَجَ فِينِ
يَتَابِ مِهْنِيهِ“ وہ اپنے کام کاج کے کپڑوں میں
کلا۔ ج مہن و مہن۔

المَاهِنُ: فا۔ خادم۔ غلام۔ ج مَهْنَانٌ وَمِهْنَةٌ وَ
مِهَانٌ: مَوْنَتٌ مَاهِنَةٌ ج مَوَاهِنٌ۔

المِهْيَبِيُّ: حقیر۔ کمزور۔ کم سمجھ۔ ج مَهْيَبَاءٌ۔
مَهَائِمُهُ مَهْوَةٌ: الرَّجُلُ: بہت سارنا۔
مَهَا يَنْهَوُ مَهَا: الْبَقْرَةُ الْوَحْشِيَّةُ: نسل
گائے کا خاص سفید ہونا۔

مَهْوٌ يَنْهَوُ مَهَا وَفَالْتَنُّ أَوِ السَّمْنُ: دودھ یا
گھی کا پتلا ہونا۔ صفت مَهْوٌ۔
أَمَهْيُ اللَّبَنِ: دودھ میں زیادہ پانی ملانا۔

الحَدِيدَةُ: لوہے کو تیز کرنا۔ الْفَرَسُ:
رستی دراز کرنا۔ دوڑا کر گرم کرنا۔ اِسْمُ الْمَهْنِيِّ:
اور کہا جاتا ہے ”حَقَّرَ الْبَيْتَ حَتَّى أَمَهْيَ“ اس
نے کنواں کھودا یہاں تک کہ پانی تک پہنچ گیا۔

أَمَهْيُ فَلَانٌ: تعریف میں خوب مبالغہ کرنا
— الْحَبْلُ: رستی کو ڈھیل دینا۔
الْقِدْحُ: تیز کی کچی کو درست کرنا۔

الْقِدْرُ: ہانڈی میں پانی بڑھانا۔ أَمَهَتِ الْعَيْنُ:
آنسو بہنا۔

المَهْوُ: مہ۔ سفید سنکری۔ موتی۔ بلور۔ اولد۔
تازہ گھوڑیں۔ تلی تلواریں۔ بہت پانی والا دودھ۔
المَهَاةُ: نسل گائے (جس سے آنکھوں کی
خوبصورتی میں تشبیہ دی جاتی ہے) آفتاب۔ بلور۔
ج مَهَاوٌ مَهْوَاتٌ وَمَهْيَاتٌ۔

مہی پنہی و پنہی مہنہا و مہنی و مہنی
الشَّفْرَةُ أَوِ الْحَدِيدَةُ: پتلا کرنا۔ تیز کرنا۔ و مہنی
الشَّيْءِ ملح کرنا۔

إِسْتَهْمَى الْفَرَسَ: گھوڑے کو پوری رفتار پر
چھوڑ دینا۔ الْقَوْمَ: دشمن کی صفوں کو توڑ
دینا اور گلست دینا۔

مہیم: کلمہ استہنام ہے یعنی تمسارا کیا حال
ہے۔ یا تمہیں کیا ہوا۔ یا کیا خبر ہے۔

مَاءٌ يَمْوُءُ مَوَاءً وَأَمْوَأَ السَّبْوُزُ: بلی کا میاؤں
میاؤں کرنا۔ وَأَمْوَأَ الرَّجُلُ: بلی کی طرح آواز
کرنا۔

الدَّم عَلَى الْأَرْضِ: خون کا زمین پر پھیل کر سنا
— الدَّم: خون کو زمین پر پھیلا کر سنا —
الشَّيْ: آگے پیچھے تیزی سے ہلنا —
التَّرَابُ: غبار کا اٹھنا۔ براہِ گنجتہ ہونا۔ حازرت
الزِّيغُ التَّرَابِ وَالزِّيغُ: ہوا کا مٹی کو اٹھانا۔
براہِ گنجتہ کرنا۔ مازِ الصُّوفِ عَنِ الْجَسَدِ: جسم کو
جسم سے اکھڑنا۔ البِسَانُ فِي الْمَطْفُونِ: بھالے
کا زخمی کے بدن میں ہلنا۔

أَمَارَتِ الدَّمِ: خون بہانا۔ اَمَارَتِ الزِّيغِ
التَّرَابِ: ہوا کا مٹی کو اٹھانا براہِ گنجتہ کرنا۔ اَمَارَتِ
البِسَانِ فِي الْمَطْفُونِ: بھالے کو زخمی کے بدن
میں ہلانا۔

تَمَوَّرَ: تردو کی حالت میں آنا جانا —
الشَّعْرُ: بالوں کا ادھر ادھر ہونا۔ اور کہا جاتا ہے
”تَمَوَّرَ الْوَلِيُّ وَنَحْوَهُ عَنِ الدَّائِمَةِ“ جبکہ بال یا
اون وغیرہ گرجائیں — الشَّيْ: کسی چیز کا
مضطرب ہونا۔ اور جلدی جلدی حرکت کرنا۔

إِنْمَارَ الشَّعْرُ: بال اکھڑانا۔

إِنْمَارَ ائْتِيَارِ الشَّيْفِ: گوار سوختا۔

مَازَ وَ مَارَى: سربانی کلمہ ہے اس کے معنی
سید کے ہیں اور اکثر اس کا استعمال مقدس لوگوں
کے لیے ہوتا ہے اور مؤنث کیلئے فُوت کہا جاتا
ہے۔

المَوْرُ: مہ۔ نرم چیز۔ چلنا ہوا ہموار راستہ۔
تیزی۔

المَوْرُ: ہوا میں اڑنے والا غبار۔ مٹی جس کو
ہوا اڑائے ایک قسم کے بھینے۔

المَوْزَةُ وَالْمَوْزَاتُ: گری ہوئی اون۔
المَوْزَاتُ: چیز جو کسی چیز سے گرے۔ قائلی چیز کا کچھ
باقی حصہ۔

المَازِيرُ: فاکہ سمجھ۔ سَهْمٌ مَازِيرٌ: گھس جانے
والا ہلکا تیر۔ مؤنث مَازِيرَةٌ: حج مَازِيرَاتٌ وَمَوَازِيرُ
المَوَازِيرُ: اسم مبالغہ۔ رِيحٌ مَوَازِيرَةٌ أَوْ رِيحٌ مَوَازِيرٌ
مٹی براہِ گنجتہ کرنے والی ہوا۔

المَوْرُجُ: کھیتی کرنے والوں کا آلہ جس کو
کھلیان پر گھماتے ہیں اس کو بھلسکتے ہیں۔

المَوْرُجُ: کیلے کا درخت۔ کیلا۔ واحد مَوْرُجَةٌ:

المَوَازِيرُ: کیلے بیچنے والا۔

کما جاتا ہے ”هَذَا مَوْتَانِ الْفَوَادِ“ یعنی یہ بلیا الطبع
ہے۔ مؤنث مَوْتَانَةٌ۔

المَوْتَانُ: موت۔ غیر ذی روح۔ کہا جاتا ہے
”إِشْتَرَى مِنَ الْمَوْتَانِ وَلَا تَشْتَرِي مِنَ الْحَيَوَانِ“
یعنی زمین، مکانات وغیرہ خریدو اور غلام جانور
وغیرہ مت خریدو اور کہا گیا ہے کہ مَوْتَانِ اس
زمین کو کہتے ہیں جس میں آبادی نہ ہو۔

المَآئِيتُ: قریب المرگ۔ کہا جاتا ہے ”مَوْتٌ
مَآئِيتٌ“ یعنی سخت موت۔

المَيِّتَةُ حُ مَوْتِي وَمَيِّتُونَ:
والمَيِّتَةُ حُ مَيِّتُونَ: مردہ۔ مؤنث مَيِّتَةٌ وَ
مَيِّتٌ وَمَيِّتَةٌ حُ مَيِّتَاتٌ وَمَيِّتَاتٌ۔

المَوَاتُ: مہ۔ غیر ذی روح۔ غیر آباد زمین یا وہ
زمین جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔

المَصَاتُ: موت۔ یا زمانہ موت۔

المَصَاتُ مِنَ اللَّفْظِ: متروک الاستعمال لفظ۔
حَاطِطَةٌ مَيِّتَةٌ: گناہ کبیرہ۔

المُسْتَمِيَّتُ: فاکہ طالب قتل جو لڑائیوں میں
موت کی پروا نہ کرے۔ بتکلف مجنوں بننے والا۔
انڈے کی سفیدی کا باریک چھلکا۔

مَاتَ يَمُوتُ مَوْتًا وَمَوْتَانًا الشَّيْ بِالشَّيْ:
مَلُوطٌ كَرْنَا — الشَّيْ فِي الْمَاءِ: پانی میں گستا۔
إِنْمَاتٌ: مختلط ہونا۔ حل ہونا۔ محل ل جانا۔

مَآجٌ يَمْوُجُ مَوْجًا وَمَوْجَانًا وَمَوْجُ الْبَحْرِ:
سندر کا موج مارتا۔ مَآجُ الْقَوْمِ: مضطرب ہونا۔
بے ترتیب ہونا۔ مَآجٌ عَنِ الْحَقِّ: حق سے تجاوز
کرنا۔

المَوْجُ: مہ۔ لہر۔ واحد مَوْجَةٌ: حج أمواج و
مَوْجَةُ الشَّبَابِ: آغاز جوانی۔

المَوْجُ: بہت موج مارنے والا۔

مَآخٌ يَمْوُجُ مَوْجًا الْقَضْبُ: غصہ کا ٹھنڈا
ہونا۔

المَآذُ: اچھی خصلتوں والا ہونا۔ خوش طبع (اصل
اس کی مَوْذٌ ہے)

المَآذِيُّ: سفید شہد۔ یا عمدہ شہد۔ ہر قسم کے
ہتھیار (والمَآذِيَّةُ) نرم زہر۔

المَآذِيَّةُ: شراب۔

مَآزٌ يَمْوُزُ مَوْزًا الْبَحْرُ: موج زن ہونا —

المَآئِيَةُ وَالْمَآئِيَةُ وَالْمَآئِيَةُ: لہی۔
مَاتَ يَمُوتُ مَوْتًا: مرنا۔ مَاتَتِ الرِّبْعُ: ہوا کا
رک جانا — التَّازُ: آگ کی راگھ ٹھنڈی ہونا

مَاتَ الْحَوْرُ وَالْمَبْرُودُ: گرمی یا سردی کا زائل
ہونا۔ مَاتَتِ الْحُمَى: بخار کا جوش کم ہونا۔ مَاتَ
الْقَوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

مَاتَ يَمُوتُ مَوْتًا مَوْتَانًا الْمَكَانُ: ویران
ہونا — الْمَطْرِيُّ: راستہ چلنا بند ہونا۔ کہا جاتا
ہے ”مَاتَ فَوْقَ الرَّحْلِ“ یعنی گرمی نیند سو گیا۔
مَوْتَةٌ: بار ڈالنا۔ موت دینا۔

أَمَاتَةٌ أَمَاتَةٌ: بار ڈالنا۔ اَمَاتَتْ نَفْسُهُ: مغلوب
کرنا — غَضَبُهُ: غصہ پی جانا —

الزُّجْلُ: مرے ہوئے بچوں والا ہونا —
النَّاقَةُ أَوْ الْمَرْأَةُ: مرے ہوئے بچہ والی ہونا۔

صَفَتٌ مُيِّتَةٌ وَ مُيِّتَةٌ حُ مَمَآوِيَتٌ —
القَوْمُ: مرے ہوئے جانوروں والا ہونا۔ اَمَاتَتْ
الْمَلْحَمُ: خوب اچھی طرح پکانا اور جوش دینا۔ اور
کہا جاتا ہے ”مَآ مَوْتَةٌ“ یعنی وہ کیسا مردہ دل

ہے۔
أَمِيَّتٌ اللَّفْظَةُ: لفظ کا استعمال چھوڑ دیا جانا۔
مَآوَتٌ مَمَآوَتَةٌ قَوْلُهُ: باہم صبر کرنا۔
تَمَآوَتٌ: بتکلف مردہ بنا۔ خاموشی اور
کمزوری ظاہر کرنا۔

إِسْتَمَاتَ اسْتَمَاتَةً وَ اسْتَمَاتَاتٌ: موت چاہنا۔
ہر طریقے سے کسی چیز کو طلب کرنا۔ لاغری کے بعد
مونا ہونا — الشَّوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا

— الشَّيْ: ڈھیلا ہونا۔

المَوْتُ وَالْمَوْتَةُ: موت۔ المَوْتُ الْأَخْمَرُ:
قتل سے جو موت واقع ہو۔ المَوْتُ الْأَبْيَضُ:
موت طبعی یا اچانک موت۔ المَوْتُ الْأَسْوَدُ: گلا
گھونٹنے سے جو موت واقع ہو۔

المَوْتَةُ: جنوں کی ایک قسم۔ مرگ۔

المَيِّتَةُ: المَيِّتَةُ كَالْمَوْتِ: مردار۔ حج مَيِّتَاتُ۔
العَيْتَةُ: مرنے کی حالت۔ کہا جاتا ہے ”مَاتَ
بَيْتَةُ صَالِحَةَ“ و ”مَاتَ بَيْتَةُ سُؤْيَةَ“ (اچھی اور
بُری طرح مرنا)

المَيِّتَةُ: موت۔ (مولدہ)۔

المَوْتَانُ وَالْمَوْتَانُ: جانوروں کی مرگی۔ اور

نان و نفعہ لانا — الدواء و نحوہ: کھلانا
ماز العُشْف: اون دھکنا۔ امان اذواجہ:
رگیں کاننا۔

ماتیرہ مُمَازِة: خوراک لانا۔ مقابلہ کرنا۔ نقل
اتارنا۔

تَمَازِیرُ تَمَازِیرُ اَمَازِینِ القَوْمِ: فساروا قح ہونا۔
اِنتَازَ لِغَیَابِہِ وَ لِنَفْسِہِ: خوراک جمع کرنا۔
المَیْزِ: مہ۔ خوراک۔ کما جاتا ہے "مَاعِجْذَہُ
خَیْرٌ و لا مَیْزٌ"

المِیْزَۃ: خوراک جس کو انسان زخیرہ کر کے
رکھے۔ ج۔ میز۔

المَازِیرُ: خوراک لانے والا۔ ج۔ میاز۔
المِیْازُ: خوراک لانے والا۔

المُؤَاذَۃ: اون کا ردی حصہ جو دھکنے کے وقت
گرے۔

مَازٌ یَمِیْزُ مِیْزًا وَ مِیْزٌ وَ اَمَازُ الشَّیْ: طبعہ
کرنا۔ جدا کرنا — الشَّیْ: تزیج دینا۔ مَازٌ
فَلَانٌ: ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلنا ہونا۔

تَمَیْزٌ وَ اِنْمَازٌ اِنْمِیْازًا وَ اِنْمَازٌ اِنْمِیْازًا
وَ اِسْتَمَازٌ اِسْتِمَازَۃً: جدا ہونا۔ وَ تَمَیْزٌ فَلَانٌ
مِنَ الغَیْظِ: غصہ سے پھٹ پڑنا۔ اِنْمَازُ القَوْمِ
بعض کا بعض سے جدا ہونا۔ وَ اِسْتَمَازٌ: جدا ہونا۔

تَمَازِیرُ القَوْمِ: متفرق ہونا۔ گروہ بندی کرنا۔
المِیْزُ وَ المِیْزُ: مضبوط ٹھوس والا۔

التَمِیْزُ: میز کا مصدر۔ قوت نفسانی جس سے
معانی کا استنباط ہو۔ علم نحو کی ایک اصطلاح۔ سببُ
التَمِیْزِ: نفع ضرر پہچاننے کی عمر۔

الِاِیْمِیْازُ: مہ۔ کسی چیز کے بیچنے یا کسی کام کے
کرنے کی اجازت کا خاص پروانہ۔ لاسنس ج
اِیْمِیْازَاتٌ (مولدہ)

المِیْزَابُ: پرانا۔

مَاسٌ یَمِشُ مِشًا وَ مِشَانًا وَ تَمِشُ
الرَّجُلُ: ناز و انداز سے چلنا۔ صفت مَاشٍ وَ
مِشِیٍّ وَ مِشَانٍ وَ مِشِیٍّ

مِشَ القَوْمِ: واس بنانا۔

المِشِ: مہ۔ ایک بڑا درخت جس کی لکڑی
سے کجاوہ بنایا کرتے تھے اور اس کے دانے کالے
اور بیٹھے ہوتے ہیں۔ واحد مِشٌ۔ المِشِ ایک

اِسْتَمَاحَۃً اِسْتِمَاحَۃً: عطیہ مانگنا۔ سفارش
کرنے کی درخواست کرنا۔

المَناحِجُ مَناحِجٌ وَ المَناحِجُ: چلو سے پانی پلانے
کی درخواست کرنے والا۔

مَناحٌ یَمِیحُ مِناحًا وَ تَمِیحُ الرَّجُلُ: ناز و انداز
سے چلنا۔

مَناحٌ یَمِیحُ مِناحًا وَ مِناحًا: بلنا۔ بھگنا۔ کما جاتا ہے
"مَناحٌ بِہِ الاَرْضُ" زمین اس کے ساتھ گھوم گئی

— الفُضُّ: شنی کا بھگنا۔ بلنا —
الرَّجُلُ: ناز و انداز سے چلنا۔ سر چکرانا وَ مَناحٌ
الرَّجُلُ: زیارت کرنا۔ بہتر سلوک کرنا۔

تَمَیْذٌ: نشاط سے جمو مٹنا۔
تَمِیْذَاتُ المَرْأَۃِ: عورت کا ناز سے چلنا۔

اِنْتِاَذٌ اِنْتِاَذًا: غلہ جمع کرنا۔ عطیہ طلب کرنا۔ کما
جاتا ہے "اِنْتِاَذُوْہُ فَمَناحُہُمُ" یعنی لوگوں نے اس

سے عطیہ طلب کیا اور اس نے دیا۔
المَناحِذُ: بھگنے والا۔ سر میں چکر والا۔ ج۔ مِیْذِی۔
عُضٌّ مَناحٌ: بھگنے والی شئی۔ عُضٌّ مِناحٌ: بھگنے
والی شئیوں۔

المَناحِذُ: المَناحِذُ کا مؤنث۔ دسترخوان جس پر
کھانا ہو۔ کھانا۔ زمین کا دائرہ ج۔ مَناحِذُ وَ مَناحِذَاتُ۔
مِناحٌ: بید میں ایک لغت نادرہ۔

المِناحِذُ: مَناحِذُ کا اسم مرہ۔ کھانا۔ دسترخوان جس پر
کھانا چنا ہوا ہو۔

مِناحٌ یَمِیحُ مِناحًا وَ مِناحًا: چلو سے پانی
لینا — اَصْحَابِہِ: لوگوں کے لیے چلو چلو پانی
لانا — الرَّجُلُ: نفع دینا — "عُ عِنْدَ
الْاَیْمِیْرِ": سفارش کرنا۔ کما جاتا ہے "و یحیی
عِنْدَ الْاَیْمِیْرِ" یعنی سفارش امیر سے کرو۔ مَناحِجُ
الرَّجُلِ الشَّجَرِ: بھگانا مَناحِجُ الرَّجُلُ: ناز و انداز
سے چلنا۔ مَناحِجُ بَیْہِجہ مِناحِجُ و مِناحِجُ: دونا۔

مِیحٌ تَمِیحًا الفُضُّ: بھگنا۔ بلنا —
السُّکْرَانُ: چلنے میں ڈگمگانا۔
مَناحِجُ مَناحِجَۃً لانا۔

اِفْتِاحُ المَآءِ: چلو لینا — الرَّجُلُ: طلب
فضل کیلئے کسی کے پاس آنا۔ اِفْتِاحُ الحُرِّ او
العَمَلِ: بھیند میں شراب رو کرنا۔

تَمِیحٌ: ناز و انداز سے چلنا۔ دامن بائیں بھگنا۔
تَمَناحٌ: ڈگمگانا۔

مَناحٌ یَمِیحُ مِناحًا وَ مِناحًا: بلنا۔ بھگنا۔ کما جاتا ہے
"مَناحٌ بِہِ الاَرْضُ" زمین اس کے ساتھ گھوم گئی

— الفُضُّ: شنی کا بھگنا۔ بلنا —
الرَّجُلُ: ناز و انداز سے چلنا۔ سر چکرانا وَ مَناحٌ
الرَّجُلُ: زیارت کرنا۔ بہتر سلوک کرنا۔

تَمَیْذٌ: نشاط سے جمو مٹنا۔
تَمِیْذَاتُ المَرْأَۃِ: عورت کا ناز سے چلنا۔

اِنْتِاَذٌ اِنْتِاَذًا: غلہ جمع کرنا۔ عطیہ طلب کرنا۔ کما
جاتا ہے "اِنْتِاَذُوْہُ فَمَناحُہُمُ" یعنی لوگوں نے اس

سے عطیہ طلب کیا اور اس نے دیا۔
المَناحِذُ: بھگنے والا۔ سر میں چکر والا۔ ج۔ مِیْذِی۔
عُضٌّ مَناحٌ: بھگنے والی شئی۔ عُضٌّ مِناحٌ: بھگنے
والی شئیوں۔

مَناحٌ یَمِیحُ مِناحًا وَ مِناحًا: بلنا۔ بھگنا۔ کما جاتا ہے
"مَناحٌ بِہِ الاَرْضُ" زمین اس کے ساتھ گھوم گئی

آئیر۔ ج۔ مَناحِجُ۔
رَکِیۃٌ مِیْہَۃٌ: بہت پانی والا کنواں۔

الْاَمْوُہُ: اسم تفضیل۔ کما جاتا ہے "الْیَمْوُہُ
الشَّیْءِ اَمْوُہُ مِما کانت" یعنی کنواں اسماں بہ

نسبت پہلے کے زیادہ پانی والا ہے۔
المُؤَوَّہُ: مہ۔ ناخند والی آنکھ۔

مَناحٌ یَمِیحُ مِناحًا: بلنا۔ بھگنا۔ کما جاتا ہے
"مَناحٌ بِہِ الاَرْضُ" زمین اس کے ساتھ گھوم گئی

— الفُضُّ: شنی کا بھگنا۔ بلنا —
الرَّجُلُ: ناز و انداز سے چلنا۔ سر چکرانا وَ مَناحٌ
الرَّجُلُ: زیارت کرنا۔ بہتر سلوک کرنا۔

تَمَیْذٌ: نشاط سے جمو مٹنا۔
تَمِیْذَاتُ المَرْأَۃِ: عورت کا ناز سے چلنا۔

اِنْتِاَذٌ اِنْتِاَذًا: غلہ جمع کرنا۔ عطیہ طلب کرنا۔ کما
جاتا ہے "اِنْتِاَذُوْہُ فَمَناحُہُمُ" یعنی لوگوں نے اس

سے عطیہ طلب کیا اور اس نے دیا۔
المَناحِذُ: بھگنے والا۔ سر میں چکر والا۔ ج۔ مِیْذِی۔
عُضٌّ مَناحٌ: بھگنے والی شئی۔ عُضٌّ مِناحٌ: بھگنے
والی شئیوں۔

المَناحِذُ: المَناحِذُ کا مؤنث۔ دسترخوان جس پر
کھانا ہو۔ کھانا۔ زمین کا دائرہ ج۔ مَناحِذُ وَ مَناحِذَاتُ۔
مِناحٌ: بید میں ایک لغت نادرہ۔

المِناحِذُ: مَناحِذُ کا اسم مرہ۔ کھانا۔ دسترخوان جس پر
کھانا چنا ہوا ہو۔

مِناحٌ یَمِیحُ مِناحًا وَ مِناحًا: چلو سے پانی
لینا — اَصْحَابِہِ: لوگوں کے لیے چلو چلو پانی
لانا — الرَّجُلُ: نفع دینا — "عُ عِنْدَ
الْاَیْمِیْرِ": سفارش کرنا۔ کما جاتا ہے "و یحیی
عِنْدَ الْاَیْمِیْرِ" یعنی سفارش امیر سے کرو۔ مَناحِجُ
الرَّجُلِ الشَّجَرِ: بھگانا مَناحِجُ الرَّجُلُ: ناز و انداز
سے چلنا۔ مَناحِجُ بَیْہِجہ مِناحِجُ و مِناحِجُ: دونا۔

مِیحٌ تَمِیحًا الفُضُّ: بھگنا۔ بلنا —
السُّکْرَانُ: چلنے میں ڈگمگانا۔
مَناحِجُ مَناحِجَۃً لانا۔

اِفْتِاحُ المَآءِ: چلو لینا — الرَّجُلُ: طلب
فضل کیلئے کسی کے پاس آنا۔ اِفْتِاحُ الحُرِّ او
العَمَلِ: بھیند میں شراب رو کرنا۔

تَمِیحٌ: ناز و انداز سے چلنا۔ دامن بائیں بھگنا۔
تَمَناحٌ: ڈگمگانا۔

مَناحٌ یَمِیحُ مِناحًا وَ مِناحًا: بلنا۔ بھگنا۔ کما جاتا ہے
"مَناحٌ بِہِ الاَرْضُ" زمین اس کے ساتھ گھوم گئی

— الفُضُّ: شنی کا بھگنا۔ بلنا —
الرَّجُلُ: ناز و انداز سے چلنا۔ سر چکرانا وَ مَناحٌ
الرَّجُلُ: زیارت کرنا۔ بہتر سلوک کرنا۔

تَمَیْذٌ: نشاط سے جمو مٹنا۔
تَمِیْذَاتُ المَرْأَۃِ: عورت کا ناز سے چلنا۔

اِنْتِاَذٌ اِنْتِاَذًا: غلہ جمع کرنا۔ عطیہ طلب کرنا۔ کما
جاتا ہے "اِنْتِاَذُوْہُ فَمَناحُہُمُ" یعنی لوگوں نے اس

سے عطیہ طلب کیا اور اس نے دیا۔
المَناحِذُ: بھگنے والا۔ سر میں چکر والا۔ ج۔ مِیْذِی۔
عُضٌّ مَناحٌ: بھگنے والی شئی۔ عُضٌّ مِناحٌ: بھگنے
والی شئیوں۔

قسم کی کشش۔ دو بیوں کے درمیان لمبی لکڑی۔
کباوہ۔

المیّاس۔ اڑ کے چلنے والا شیر۔ بھیڑیا۔
المیّسان۔ بہت تیز چکنے والا ستارہ ج
میاسین۔

مَاشٌ يَمِينٌ مَيْسًا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ : ملنا
— النَّاقَةُ : تمھن سے آدھا دوہ دوہنا
— الخَبْرُ : کچھ بتانا کچھ چھپانا۔ کہا جاتا ہے
”مَاشُوا الْأَرْضَ مَيْسَةً“ وہ زمین پر گزرے۔

مَاطٌ يَمِيطُ مِيطًا وَمِيطَانًا وَأَمَاطٌ إِعَاطَةٌ
عَنْ كَذَا : جدا ہونا۔ دور ہونا۔ کہا جاتا ہے ”مِيطُ
عَنَابًا فَلَانٌ“ یعنی اے فلاں ہم سے دور ہو۔
مَاطُهُ وَأَمَاطُهُ وَمَاطِيهِ : جدا کرنا۔ دور کرنا۔ لے
جانا۔ مَاطُ الزَّجْلِ : ظلم کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَاطُ
عَلَيْهِ فَيُنْحَكِيهِ“ اس نے اپنے فیصلہ میں
میرے اوپر ظلم کیا۔

فَلَانًا : ڈانٹنا ہانا — الشَّيْءُ : جانا۔

مِيطٌ مَمِيطًا يَمِيطُهُمَا : مائل کرنا۔

تَمَاطُ الْقَوْمِ : فساد واقع ہونا۔ ایک دوسرے
سے بعید ہونا۔

مَاطِظُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ : ترجیح دینا۔

المِيطُ : مہ۔ کہا جاتا ہے ”مَاعِدَةٌ مِيطٌ“ اس
کے پاس کچھ نہیں ”وَأَمْتًا حَتَّى لَا يَجِدَ
مِيطًا“ بھر گیا یہاں تک کہ اب مزید گنجائش نہیں
”وَأَمْرٌ ذُو مِيطٍ“ سخت معاملہ۔

المِيطُ : دُخ۔ ڈانٹ۔ جھکاؤ۔ ادب اور تہجد (جس
طرح ہیٹا کے معنی اقبال اور قربت کے ہیں) اور
اسی سے ہے ”اصْبَحُوا فِي هَيْاطٍ وَمِيطٍ“ وہ
لوگ اقبال و ادب میں ہیں۔

المِيطُ : بیوہ کھیل گویں رہنے والا۔
مَاعٌ يَمِينُ مَيْسًا الشَّيْءُ : زمین پر پھیل کر سنا۔
کہا جاتا ہے ”السَّرَابُ يَمِينُ“ سراب زمین پر
پھیل کر جاری ہے — نَاصِيَةُ الْقَوْمِ :
گھوڑے کی پیشانی کے بال طویل ہونا اور لگنا

— الْقَوْمِ : گھوڑے کا دوڑنا —
وَالْمَاعُ الْمَيْسَاوُ مَمِيعٌ مَمِيعًا السَّمْنُ : گھی
کا پھیل کر سنا۔ صفت مائع مونس مایعہ کہا جاتا
ہے الفَصَّةُ يَمِينُ فِي الْبُؤْطَةِ : چاندی کشالی

میں پھیل کر رہ رہی ہے۔

أَمَاعٌ وَأَمَاعًا وَإِعَاعَةُ الشَّيْءِ : بہانا۔

مَيْعَةُ الشَّيْءِ : اول شے۔ اصل شے۔ کہا جاتا ہے
”مَيْعَةُ الشَّبَابِ“ آغاز جوانی ”وَمَيْعَةُ السُّكْرِ“
ابتدائی نشوونما ”مَيْعَةُ الْقَوْمِ“ گھوڑے کی دوڑ کا
آغاز۔ کہا جاتا ہے ”الْفَرَسُ فِي مَيْعَةِ حَزْبِهِ“
گھوڑا اپنی دوڑ کے آغاز میں ہے۔ المَيْعَةُ : زمین پر
بستی ہوئی چیز کا سیلان۔ ایک درخت کا خوشبودار
گوند۔

المَنايعُ : بننے والی چیز۔ بیوقوف۔

المَنايعةُ : المَنايعُ کا مونس۔ گھوڑے کی پیشانی
کے بال جبکہ طویل ہوں۔ ایک درخت کا خوشبودار
گوند۔ مَوَاجِحُ : مَوَاجِحُ

مَالٌ يَمِينٌ مَيْلًا وَتَمَيُّلًا وَمَيْلَانًا وَمَيْلُونًا
مَمَالًا وَمَيْمِلًا إِلَى الْمَكَانِ : لوٹنا — إلى
الشَّيْءِ أَوْ الشَّخْصِ : رغبت کرنا۔ محبت کرنا
— عَنِ الظَّرْفِ : تجاوز کرنا۔ چھوڑ دینا

— المَحَاطُ : دیوار کا جھکاؤ — المَحَاطُ
فِي حُكْمِهِ : ظلم کرنا — عَلَيْهِمُ الدَّهْرُ :
زمانہ کا مصائب ڈالنا۔ مَالٌ يَفْلَانُ : غالب ہونا۔

مَالٌ الشَّيْءِ : جھکانا کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ لَا يَمِينُ
عَلَيْهِ المِيزَةَ“ یعنی فلاں بہت قوی ہے۔
مَالَتْ تَمِيلُ مَيْلًا : الشَّمْسُ : آفتاب کا چلنا
یا غروب کے قریب ہونا۔ مَالُ النَّهَارِ أَوْ اللَّيْلِ :
دن یا رات کا ختم ہونے کے قریب ہونا۔ اور کہا جاتا
ہے ”مَالٌ بِنَا الظَّرْفِ“ یعنی دور ہوا۔

مَيْلٌ (س) مَيْلًا : خلتنا جھکا ہوا ہونا۔ صفت اُمَيْلٌ
کبھی اس کا استعمال عمارت کے متعلق ہوتا ہے۔
مَيْلٌ تَمِيلًا الشَّيْءُ : جھکانا — فِي الْأَمْرِ :
شک کرنا — بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ : تردد اور ترجیح
دینا۔ جیسے ”قَرَبَ لَهُ طَعَامًا مَمِيلًا فِيهِ لِقَابُهُ“ اس
نے کھانا پیش کیا اور کم ہونے کی وجہ سے تردد رہا
کہ کھائے یا چھوڑے۔

أَمَالٌ إِعَالَةُ الشَّيْءِ : جھکانا — يَذُّهُ
بِالْقَوْمِ : لگام ڈھیلی کرنا۔ مَالَتْ الْمَرْأَةُ : نقاب
اتارنا۔ مَالُ الْقَارِي : بڑے میں مال کرنا۔

مَآيِلَةٌ مَمَائِلَةٌ : موافقت کرنا۔ مدد دینا۔ لوٹ
ڈالنا۔ مائل ہونا۔ محبت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَآيِلَتُنَا

الْمَلِكُ فَمَا يَلْتَنَاهُ“ بادشاہ نے ہم پر حملہ کیا ہم
نے اس پر حملہ کر دیا۔ مَآيِلَتُنَا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ : ترجیح
دینا۔

تَمَيَّلٌ وَتَمَائِلٌ تَمَائِلًا فِي مَشْيِهِ : بازو انداز
سے چلنا۔ کہا جاتا ہے ”بَيْنَ الْقَوْمِ تَمَائِلٌ“ یعنی
قوم کے درمیان جنگ و جدال اور فتنے ہیں۔
تَمَائِلُ الْجُلُودِ عَنِ الْقَوْمِ : جھکانا۔

إِسْتِمَالٌ إِسْتِمَالَةً : مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے
”مِثْلُهُ فَاسْتَمَالَ“ اس نے اسے جھکایا وہ جھک
گیا — فَلَانًا وَبِقَلْبِهِ : جھکانا۔ مائل کرنا۔

ممریان بنانا — مَالِي الْوَعَاءِ : لیتا۔ إِسْتِمَالٌ
الطَّعَامِ وَنَحْوَهُ : دونوں کف یا ذراع سے ٹاپنا۔

المِجِيلُ : سرمہ کی سلامتی (مولدہ) زخم ٹاپنے کا
آلہ۔ المِجِيلُ : نشان راہ جو مسافر کیلئے بنا دیا جائے

تاکہ وہ مسافت معلوم کر سکے۔ مسافت جس کی
کوئی حد مقرر نہیں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ لگاہ
پہنچنے تک کی مسافت — عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ :
چار ہزار ہاتھ کی مسافت۔ و المِجِيلُ الهَاشِمِيُّ :
ایک ہزار باغ (اور باغ دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کی
لسانی) ج اُمَيْلٌ وَأَمَيْلٌ وَمُيُولٌ

المِجِيلَةُ : وقت۔ ج مِجِيلٌ اور کہا جاتا ہے ”الدَّهْرُ
مِجِيلٌ“ زمانہ گردشوں والا ہے۔

الإِمَالَةُ : مہ — فِي الْقِرَاءَةِ : فتح کو کسرہ
کی جانب اور الف کو یاء کی جانب جھکانا۔

الْأَمِيلُ : اسم تفضیل۔ جھکی ہوئی عمارت
وغیرہ۔ زمین پر ایک جانب جھکا ہوا۔ بَزُولٌ مَوْثٌ
مَيْلًا۔

المَيْلَاءُ : الْأَمِيلُ کا مونس۔ ریت کا ٹیلہ۔
سَجْرَةٌ مَيْلَاءٌ : بہت نشیبوں والا درخت۔

المَائِلُ : فوج مِئِيلٌ وَقَالَةَ مَوْثٌ مَائِلَةٌ ج
مَائِلَاتٌ وَمَوَائِلُ

المِئِيلُ : بہت جھکنے والا۔ مَوْثٌ مَائِلَةٌ :
مَانٌ يَمِينٌ مَيْسًا : جھوٹ بولنا۔ صفت مَائِلٌ وَ
مِئَانٌ وَمِئُونٌ : مَانُ الْأَرْضِ : زمین کو زراعت
کے لیے جوتنا۔


تَمَائِنُ الْقَوْمِ : ایک کا دوسرے پر جھوٹ
بولنا۔

المَنايِلُ : بل کا پھیل۔

المَاهَةُ وَالْمَيْهَةُ. کنوئیں کے پانی کی کثرت۔
لَا مِيَةَ. اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "الْبَيْزُ أَمِيَّةُ
مِمَّا كَانَتْ" کنواں بہ نسبت پہلے کے بہت
پنی والا ہے۔
مِيٌّ وَمِيَّةٌ وَمِيَاءٌ. عورتوں کے نام۔

مُتَمَائِنُ الْوُدِّ: جھوٹی دوستی کرنے والا
مَاءَ يَمِينِهِ مَيْهَتَا وَ مَيْهَةُ السِّنْفِ وَعَنْدِهِ سِنَا.
الدَّهَبُ: تلواری پر سونے کے پانی کا طبع۔ تا۔
فَلَانَا: پانی پلانا۔ مَاهَتِ الْبَيْزُ: بہت پانی والا ہے۔
مَاءَ يَمِينِهِ مَيْهَةُ وَمَاهَةُ وَمَيْهَتَا. الرِّكْبَةُ: کنوئیں
کے پانی کو زیادہ کرنا۔

المَيْنُ. جھوٹ۔ ج مِيُونُ۔ کہتے ہیں "اكثر
الطَّنُونِ مِيُونٌ" اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں۔
"وَمَا هُوَ إِلَّا كَذِبٌ وَمَيْنٌ" یہ صرف
جھوٹ ہے۔
المِيْنَاو المِيْنَاءُ۔ بندرگاہ۔ ج مَوَانٍ وَمَوَانِي
المِيْنَاءُ: آگینے۔



ن - حرف نون پانچ قسموں پر ہے۔

(۱) نون تائید - اس کی دو قسمیں ہیں۔ خفیفہ۔ ثقیلہ اور یہ فعل کے ساتھ مختص ہے جیسے "لَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاعِرِينَ" و "لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا" ماضی کی تائید اس سے بالکل نہیں آتی اور امر کی تائید جائز ہے اور فعل مضارع کی تائید واجب ہے جبکہ جواب قسم ہو اور لام قسم سے کسی اجنبی کا فاصلہ نہ ہو اور فعل مثبت مستقبل ہو جیسے "تَاللَّهِ لَأَحْيِيَنَّكَ أَرْضَنَا مَكَتُمْ" اور جبکہ جواب قسم ہو اور یہ شرطیں نہ پائی جاتی ہوں تو تائید ممتنع ہے اور ان کے علاوہ میں تائید و عدم تائید دونوں جائز ہیں مگر طلب میں تائید زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) نون توین۔ اور یہ نون ساکنہ زائدہ اسم کے آخر میں آتا ہے جو صرف پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا جیسے کِتاب۔

(۳) نون تانیث۔ اور یہ یا تو خفیفہ و مفتوحہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ لاقح ہوتا ہے جیسے "صُرِّقَ وَنُصِرَ" اور یہ ضمیر ہے اور یا مشدودہ و مفتوحہ ہوتا ہے جو جمع مؤنث پر دلالت کرنے کیلئے ضمیروں کے ساتھ متصل ہوتا ہے جیسے "غَلَا مَكْنٌ وَمِنْهُنَّ وَصُرِّبَهُنَّ" اور یہ حرف ہے۔

(۴) نون وقایہ۔ اور یہ یائے متکلم سے پہلے آتا ہے جیسے صُرِّقِي وَأُصِّرِي۔

(۵) نون زائدہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو فعل مضارع کے ساتھ لاقح ہوتا ہے جبکہ ضمیر تنزیہ کے ساتھ متصل ہو جیسے "نُصِرَ بِنَانٍ" یا ضمیر مؤنث حاضر کے ساتھ متصل ہو جیسے "نُصِرِيْنَ" یا جمع مذکر کے ساتھ جیسے

"نُصِرِيْنَ وَنُصِرِيْنَ" ان ساری صورتوں میں سوائے ثنی کے مفتوح ہوتا ہے اور ثنی میں کمور۔ دوسری قسم وہ ہے جو اسم ثنی کے ساتھ لاقح ہوتا ہے اور کمور ہوتا ہے جیسے "الرَّيْدَانِ" اور جمع مذکر کے ساتھ اور مفتوح ہوتا ہے جیسے "الرَّيْدُونَ"۔

نا۔ ضمیر جمع متکلم ہے اور رفع نصب جر میں مشترک ہے جیسے "رَبَّنَا إِنَّا أَسْمَعُكَ"۔

نَات (ف و ض) نَاتَا وَ نَيْشَا۔ گریہ و زاری کرنا۔ الرَجُلُ: حسد کرنا۔

النَّات۔ شير۔

نَات (ف) نَاتَا وَ مَنَاتَا عَنهُ: بعید ہونا۔ تاخیر کرنا۔ الرَجُلُ: بکوشش کرنا۔

أَنَّا كُنَّا إِنَّا نَا۔ دُور کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَعَى سَعِيًّا نَاتَا وَ مَنَاتَا" وہ ست چال چلا۔ سَيَّرَ مَنَاتًا: ست چال۔

نَاج (ف) نُوُوجًا فِي الْأَرْضِ: جانا۔ الْأَمْرُ: کام کو موخر کرنا۔ نَبِيحًا إِلَى اللَّهِ فِي الدُّعَاءِ: گورگڑانا۔ نَاجَتِ الرَّيْحُ: ہوا کا تیز ہونا۔

الرَّيْحُ الْمَوْضِعُ: ہوا کا تیز کرنا۔

نَاج (ف ض) نَاجَا وَ نُوُوجَا الْقُرُ: بیل کا آواز نکالنا۔

نُجِح (س) نَاجَا۔ آہستہ کھانا۔ نَجِحَ الْقَوْمُ: تیز ہوا لگنا۔

النَّاجِحَةُ: تیز ہوا۔ ج۔ نَاجِحَات۔ النَّاجِجُ: بہت آواز نکالنے والا۔ تیز رَجُلٌ: نَاجٌ: بلند آواز والا مرد۔

النَّبِيحُ: مع۔ کہا جاتا ہے "لِلرَّيْحِ نَبِيحٌ" ہوا کے لیے تیز سرسراہٹ ہے۔

رَفِعَ نُوُوجًا: تیز چلنے والی ہوا۔ ج۔ نُوُوجِجُ: الرَّيْحُ: حديدٌ مَنُوُوجٌ: سف۔

چچیدہ بات۔

نَادَهُ (ف) نَادَا۔ حسد کرنا۔ نَادَتْهُ الْمَدَاهِيَةُ مصیبت نازل ہونا۔ نَادَتْ الْأَرْضُ: زمین میں سیل ہونا۔

النَّادُ۔ بروزن عَقَامُ وَ النَّادِي بِرِوْزِنِ نَصَارِي وَ النَّوُودُ۔ مصیبت۔

النَّبِيْلُ۔ مصیبت۔

نَازَتْ (ف) نَازَا۔ نَازَرَةٌ فِي النَّاسِ: لوگوں میں بچان ہونا۔

النَّوُورُ۔ کابل۔

نَاشَ (ف) نَاشَا وَ نَشَا وَ نَشَى: سخت پکڑنا۔ الْأَمْرُ: موخر کرنا۔ الشَّيْ: دوڑ کرنا۔

هُ اللَّهُ: زندہ کرنا اور بلند کرنا۔ الرَّجُلُ مِنْ مَكَايِبِهِ: اٹھنا۔

نَشَا شَ: بچھے ہونا اور دور ہونا۔ الشَّيْ: دور سے لینا۔

إِنشَاء۔ بچھے ہونا اور دور ہونا۔ الشَّيْ فَلَانَا: جلدی میں ڈالنا۔ بَعَثَهُ: بکریوں کے ساتھ کوچ کرنا۔ فَلَانَا: بلی سمجھنا۔

اللَّهُ: ریاد کرنا۔ النَّوُوشُ: قوی غالب۔

النَّبِيْشُ: دور۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ نَبِيْشًا" اس نے اس کو اخیر میں کر دیا۔ "وَجَاءَهُ نَبِيْشًا" وہ در سے آیا۔ "وَ اتَّبَعَهُ نَبِيْشًا" بولا جاتا ہے جبکہ بچھے رہ جائے اور پھر ساتھ چھوٹ جانے کے خوف سے جلدی سے چھپا کرے۔

النَّبِيْضُ۔ مصیبت۔

النَّبِيْطُ۔ بری مصیبت۔ جہالاک مرد۔

نَافَ (ف) نَافَا فِي الْأَمْرِ: بکوشش کرنا۔ نَيْفَ (س) نَافَا وَ نَافَا مِنَ الشَّرَابِ:

آسودہ ہونا — الرَّجُلُ: نفرت کرنا — الشُّعْبُ: گھاس۔
 نَأَى (ف) نَأَى وَ نَيْبًا وَ نَالًا الْفَرَسُ: گھوڑے کا جھوسے ہوئے چلنا۔ صفت نَوُؤٌ۔
 الرَّجُلُ: سرائٹھا کر ہلاتے ہوئے چلنا — فَلَانًا: حسد کرنا۔
 نَامٌ (ف) نَيْبًا: آہستہ آہستہ رونا۔
 نَامَتِ الْفَرَسُ وَالْأَسَدُ وَالطَّلْبِيُّ: کمان، شیر، ہرن کا آواز کرنا۔
 النَّامَةُ: نام کا اسم مرہ۔ لغہ۔ آواز۔ کہا جاتا ہے "أَسَكَّتِ اللَّهُ نَامَتَهُ" اللہ اس کی آواز کو خاموش کر دے یعنی مار دے۔
 نَائِبٌ: نَبْ نَائَةً وَ نَبَابٌ عَنِ الْأَمْرِ: سبب ہونا۔ عاجز ہونا۔ قاصر ہونا۔ صفت نَبَانًا وَ نَائِيًا وَ نَائِيًا عَائِزًا۔ بزدل۔ نَائِيًا فَلَانًا: اچھی غدار ہونا۔ ارادہ سے باز رکھنا۔
 نَائِيًا يَنْبِي نَائِيًا فَلَانًا وَ نَائِيًا عَنِ فَلَانٍ: دور ہونا۔ صفت نَاءٌ مَوْثٌ نَائِيَةٌ۔
 نَائِيًا وَ نَائِيًا وَ اِنْتَائِيًا لِلْعَجِيمَةِ: خیمہ کے گرد چوچہ کھونا۔
 نَائِيًا مِّنْ أُمَّةٍ الرَّجُلُ: دور کرنا — الشُّعْرُ عَنِ فَلَانٍ: بدافعت کرنا۔ ہانا۔
 أَنَائِيًا فَلَانًا عَيْتَهُ: دور کرنا۔
 نَتَاءً عَلَى تَنَائِيًا وَ اِنْتَائِيًا وَ اِنْتَاءً وَ رَوَانًا: التَّائِي وَ النَّوِيُّ وَ النَّبِيُّ وَ النَّوِيُّ: چوچہ خیمہ کے ارد گرد چلنا۔
 النَّائِي: دور۔
 الْمُنْتَائِي: دور جگہ۔ خیمہ کے ارد گرد چوچہ۔
 النَّائِي: بانسری۔ ج نَائِيَاتٍ (دخیل)
 نَبَّ (ض) نَبَّ وَ نَبَّيْنَا وَ نَبَّيْنَا النَّبِيَّشَ خَاصَّةً: بکری کا جوش کے وقت بلبلانا۔
 نَبَّبْتُ نَبَّيْنَا النَّبَاتِ: پورے دار ہونا۔
 نَبَّبْتُ الْمَاءَ پَالِيًا كَالْمَرْبِطِ: النَّبَّةُ اسم مرہ۔ بدبو۔
 الْأَنْبُوبُ: بانس یا نرکل وغیرہ کا پورا۔ ج أَنْبَابُ: ہر گول جوف دار کیلئے بھی استعارہ کے طور پر بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "شَرِبَ مِنْ أَنْبُوبِ الْكُؤُزِ" اس نے کوزہ کی ٹوٹی سے پیا۔

أَنْبُوبُ الْمَاءِ: نالی۔ أَنْبُوبُ الْكُؤُزِ: کوزہ کی ٹوٹی۔ الْأَنْبُوبُ مِنَ الشَّجَرِ: درختوں کی قطار۔
 أَنْبَابُ الرَّبَّةِ: چیمپھڑے سے سانس لینے کی نالیاں۔
 الْأَنْبُوبُ وَالْأَنْبُوبَةُ: بانس یا نرکل کا پورا۔
 نَبَّأَ (ف) نَبَّأَ وَ نَبَّؤُهُ الشُّعْبُ: بلند ہونا۔ دور ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَبَّأَ سَمْعِي عَنْ كَذَا" میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی — عَلِيٌّ الْقَوْمُ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا — مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ: ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف نکلنا۔ نَبَّأَ (ف) نَبَّأَ: آہستہ آواز نکالنا۔
 نَبَّأَ نَبِيَّةً وَ تَنَبَّأَ وَ اِنْبَاءً فَلَانًا الْخَيْرِ وَ بِالْخَيْرِ: خبر دینا۔ تم کہتے ہو تَنَبَّأَتْ زَيْنًا عَمْرًا وَ خَارِجًا عَمِّي مِنْ زَيْدٍ كَمَا تَلَبَّأَ كَمَا عَمْرًا خَارِجًا هُوَ وَ اِنْبَاءً فَلَانًا: دفع کرنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلنا۔
 نَبَّأَهُ مَنَابَةً: ایک دوسرے کو خبر دینا۔ نَابَأَ الْقَوْمُ: دور ہونا۔ بڑوس چھوڑ دینا۔
 نَبَّأَتْ نَبِيَّةً: دعویٰ ہوت کرنا۔
 اِسْتَنْبَأَ الرَّجُلُ: خبر دریافت کرنا — النَّبَاءُ: خبر کی تفتیش کرنا۔
 النَّبَاءُ: فوج انبیا۔
 النَّبَاءَةُ: آہستہ آواز یا کتے کی آواز۔
 النَّبِيُّ وَ النَّبِيَّةُ: اللہ تعالیٰ کے المہم سے غیب کی بات بتانا۔ پیشین گوئی کرنا۔ خدا کی طرف سے پیغامبری۔
 النَّبِيُّ وَ النَّبِيَّةُ: اللہ تعالیٰ کے المہم سے غیب کی باتیں بتانے والا۔ آئندہ کی پیشین گوئی کرنے والا۔ خدا کی طرف سے پیغامبر نبت کیلئے نَبِيٌّ: ج أَنْبَاءُ وَ نَبِيُّونَ وَ اِنْبَاءُ وَ اِنْبَاءٌ مَوْثٌ نَبِيَّةٌ: ج نَبِيَّاتٍ: النَّبِيُّ: واضح راست۔ ٹیڑھی بلند جگہ۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا نبی کی تصغیر نَبِيٌّ اور نَبِيٌّ کی نَبِيٌّ: النَّبِيُّ: ٹیڑھی بلند جگہ۔ زَجَلٌ نَابِيٌّ وَ مَسِيلٌ نَابِيٌّ: ایسی جگہ سے آنے والا کہ معلوم نہ ہو۔
 نَبَّتْ (ن) نَبَّتَا وَ نَبَّتَا الْمَكَانَ: سبزہ زار ہونا — النَّبْتُ: سبزی کا اگانا — نَبَّوْنَا: فُذِّي الْجَارِيَّةُ نَبَّتَانِ كَالْمَرْبِطِ: لا

نَبَّتْ (ن) نَبَّتَهُ وَ نَبَّتَا الْإِنْسَانَ: جوان ہونا اور کہا جاتا ہے "نَبَّتْ فَلَانٌ فِي مَنَبَتِ صِدْقِي" یعنی فلاں نے سچے لوگوں میں پرورش پائی۔
 أَنْبَتَ الْمَكَانَ: سبزی والی ہونا — النَّبْتُ: سبزی کا اگانا — الْغَلَامُ: لڑکے کا جوان ہونا۔
 أَنْبَتَ اللَّهُ النَّبْتُ: سبزی اگانا۔ صفت مَنَبُوتٌ۔ خلاف قیاس۔
 نَبَّتَ الشَّجَرُ: پودا اگانا — الْحَبُّ: دانہ ہونا — الصَّبِيُّ: بچے کی پرورش کرنا۔
 نَبَّتَ الشُّعْبُ: ظاہر ہونا۔
 النَّبْتُ: مہ۔ سبزی۔ ج نَبَّوْنَا: واحد نَبْتُةٌ۔
 النَّبَاتُ: مہ۔ زمین سے جو کچھ اگے (پودا یا پتل یا گھاس) واحد نَبَاتَةٌ۔ ج نَبَاتَاتٌ وَ اِنْبَاءَةٌ عِلْمُ النَّبَاتِ: وہ علم جس میں نباتات کی حقیقت اور ان کے افعال و خواص سے بحث ہو۔
 النَّبَاتِيُّ: ماہر علم نبات۔
 النَّبَاتُ: نئی آگے ہوئی سبزی۔
 النَّبَاتَةُ: النَّبَاتُ كَامَوْثٌ: اولاد۔ چوپاؤں کے بچے۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ نَبِيَّيَ فَلَانٍ لَّنَابِتَةٌ طَيْرٌ" فلاں کی اولاد شروفساد کے باعث ہیں۔ ج نَوَابِتُ: النَّوَابِتُ: نا تجربہ کار نوجوان۔
 النَّبُوتُ: درخت کی نشی اور ڈنڈے پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ ج نَبَابِيَّتٌ۔
 النَّبِيَّةِيَّتُ: مہ۔ درخت۔ پودا۔ درخت خرمای کی چھائی ہوئی شاخیں۔ ج نَبَابِيَّتُ۔
 الْمَنَبِيَّتُ: اگنے کی جگہ۔
 الْمَنَبَاتُ: بہت روئیدگی والی زمین۔
 النَّبُوتُ: خشکاش کا پودا۔ خرنوب کا درخت ج نَبَابِيَّتُ: واحد نَبَابِيَّةٌ۔
 نَبَّتْ (ن) نَبَّتَا الْبَيْتُ: کتوں کو ہود کر مٹی نکالنا — النَّبْرَابُ: کتوں وغیرہ سے مٹی نکالنا — عَنِ السَّرَاوِ الْأَمْرِ: ہمید کی یا معاملہ کی تفتیش کرنا — فَلَانٌ: غھبناک ہونا اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَنْبُتُ عَنِ عَيْبِ النَّاسِ" فلاں لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے۔
 النَّبَّتُ النَّبْرَابُ: کتوں وغیرہ سے مٹی نکالنا — الشُّعْبُ: لینا۔
 نَبَّبْتُ الْقَوْمَ: باہم بحث کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَا

يَزَالُونَ يَنْتَابُونَ عَنِ الْأَسْرَارِ وَيَنْتَابُونَ
عَنِ الْأَخْيَارِ" وہ لوگ اسرار و اخبار کے متعلق
بیش بحث کرتے رہے۔

اسْتَنْبَحَ عَنِ السَّبْرِ: تحقیق میں کوشش کرنا۔
الْتَبَثَ: نشان۔ ح: اَنْبِثَاتُ۔

النَّبِيْثُ: شرر۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خَبِيْثٌ
نَبِيْثٌ"

النَّبِيْثَةُ: کنوئیں وغیرہ سے نکالی ہوئی مٹی۔ بھید
ح: نَبِثَاتٌ۔ کہا جاتا ہے "ظَهَرَتْ نَبَائِفُهُمْ وَلَمْ
تَخْفَ خَبَائِفُهُمْ" ان کے بھید ظاہر ہو گئے اور
ان کی خباثتیں پوشیدہ نہیں رہیں۔ نَبِيْثَةٌ
السَّبْعِ: ضرورت کے وقت کے لیے چھپایا ہوا
گوشت۔

الْأَنْبُوْثَةُ: کوڑی چھول۔ بچوں کا ایک کھیل کہ
مٹی کے نیچے کسی چیز کو چھپا دیتے ہیں جو نکال لیتا
ہے وہ جیت جاتا ہے۔

نَبَّحَ (ض) نَبَّحًا: سخت آواز و درشت کلام
ہونا۔ صفت: نَبَّاحٌ۔

نَبَّحَتْ (ان) انْبَحًا الْقَبِيْحَةَ: پکورا کباب ہر نکلتا۔
النَّبَّحُ: کلام میں گندہ کرنا۔ بلند ٹیلوں پر بیٹھنا۔
النَّبَّحُ: نَبَّحٌ الْعَظْمُ: سو جانا۔

النَّبَّحَةُ: نَبَّحَ النَّبَّاحُ:
النَّبَّاحُ: جھوٹا۔ كَلَّمَ النَّبَّاحُ وَ نَبَّاحِيٌّ:
بھونکنے والا آکا۔

النَّبَّاحُ: ناکارہ آدمی۔ گوز۔ نَبَّاحُ الْكَلْبِ: کتے
کی آواز۔

النَّبَّاحَةُ: نَبَّاحٌ كَالْمَوْتِ: چوتڑ۔ در۔
النَّبَّاحَةُ: مصیبت۔

النَّبَّاحُ: بلند ٹیلے۔
النَّبَّاحَانُ: دو مہل۔ ح: نَبَّاحٌ نَبَّاحٌ
المُنْبَحُ: جموںے وعدے کرنے والا۔

النَّبَّاحُ: کالے تھیلے۔
النَّبَّاحُ: آم۔

النَّبَّاحُ: کتے کی آواز۔

نَبَّحَ (ف ض) نَبَّحًا وَ نَبَّاحًا وَ نَبَّاحًا
نَبَّاحًا وَ نَبَّاحًا وَ نَبَّاحًا الْكَلْبُ: کتے کا بھونکنا۔
صفت نَبَّاحٌ ح: نَوَابِحٌ وَ نَبَّاحٌ وَ نَبَّاحٌ: کہا جاتا
ہے "نَبَّحَهُ الْكَلْبُ وَ نَبَّحَ عَلَيْهِ" اس پر کتا

بھونکا۔ نباح کتے کی آواز کے لیے ہے مگر مجازاً آہرن
اور کبرے وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ و
نَبَّحَ الشَّاعِرُ: کہا جاتا ہے "نَبَّحْتَنِي كِلَابَكَ"
تمہاری گالیاں مجھے پنجیں۔

نَبَّحَ (ف) نَبَّاحًا الْهَدُّهُ: زیادہ عمر ہونے کی
وجہ سے موٹی آواز والا ہونا۔

نَابِحَةٌ مِّنَابِحَةُ الْكَلْبِ: کتے کا کسی پر بھونکنا۔
النَّبَّاحَةُ وَ اسْتَنْبَحَهُ: بھونکنا۔ کہا جاتا ہے

"اسْتَنْبَحَ الْأَضْيَافَ كَلْبُهُمْ" مسلمانوں نے ان
کے کتوں کو بھونکایا۔ عادت تھی کہ جب مسافر
رات کو راستے میں بھگ جایا کرتا تھا تو کتے کی طرح

آواز نکالتا تاکہ آبادی کے کتے بھونکنے لگیں اور
ان کی آواز سے اس کو راستہ کا پتہ لگ جائے۔ اور
اسی وجہ سے رات کے آنے والے کو مستنبیح
کہتے تھے۔

النَّبَّوْحُ: مہ۔ قوم کا شور اور ان کے کتوں کی
آوازیں۔ اور یہ نَبَّحَ کی جمع ہے۔

النَّبَّاحُ: تیز بھونکنے والا۔ چھوٹی سفید سیبی جس کو
ہار میں ڈالا کرتے تھے۔ واحد: نَبَّاحَةٌ۔

كَلَّمَ النَّبَّاحِيَّ: بلند آواز سے بھونکنے والا آکا۔
ظَلِيْبَةٌ نَبَّاحَةٌ: مہیاے والی ہرنی۔

المُنْبُوحُ: جس کو گالی دی جائے۔
نَبَّحَ (ن ض) نَبَّوْحًا الْعَجِيْنُ: خمیر اٹھانا۔

النَّبَّاحُ الْعَجِيْنُ: خمیر اٹھانا۔ الزَّجْلُ: نرم
زمین میں بھینک کرنا۔

النَّبَّاحُ وَ النَّبَّاحُ: آبلہ۔ جھالا۔
النَّبَّاحَةُ وَ النَّبَّاحَةُ: ہر دو ایک قسم کی گھاس

جس سے کشی کی درز کو بند کرتے تھے۔ گندہ مک۔
النَّبَّاحَةُ وَ النَّبَّاحَةُ: کتے۔

النَّبَّاحَةُ: دور کی زمین۔ تکبر سے بولنے والا۔ ح:
نَوَابِحُ۔

النَّبَّاحُ: مرد سخت اندام۔ مہیا لے رنگ والا۔
بت مٹی۔

الأَرْضُ النَّبَّاحَةُ: بلند زمین۔ نرم زمین۔ ح:
نَبَّاحِيٌّ۔

النَّبَّاحُ وَ النَّبَّاحُ مِنَ الْعَجِيْنِ: اٹھانا وغیرہ۔
نَبَّحَ (ض) نَبَّحًا الشَّيْءُ: پھینک دینا۔ الأَمْرُ: بے
کار کرنا۔ العَهْدُ: بوڑھا۔ کہا جاتا ہے "نَبَّحَ إِلَى

العَهْدِ" اس نے عہد کو دشمن کی طرف ڈال دیا۔
نَبَّحَ وَ نَبَّحَ الشَّيْءَ: نبیذ بنانا۔ العَنْبُ او
الْتَمْرُ: نبیذ بننا۔ وَ نَبَّحَ الشَّيْءَ: ڈال دینا۔ پھینک
دینا۔

نَبَّحَ (ض) نَبَّحًا وَ نَبَّحًا عَزْفُهُ: رگ کا حرکت
کرنا (بعض میں ایک لغت ہے)۔

نَابِذَةٌ مِّنَابِذَةٌ وَ نَبَّادٌ: دشمنی کی وجہ سے جدا
ہونا۔ وَ الْحَزْبُ: اعلان جنگ کرنا۔

هُوَ فِي النَّبَّحِ: بیع منابذہ کرنا۔ اور اس کی صورت
یہ ہوتی تھی کہ مشتری سامان پر کنکری پھینکتا تھا
اور یہ کہتا تھا کہ جس پر لگ جائے وہ اتنے میں
میری ہے اس کو بیع منابذہ بیع القاء الحجر اور بیع
الحصاة کہتے تھے۔

نَبَّادٌ وَ نَبَّادٌ: باہم اختلاف کرنا۔ دشمنی سے علیحدہ
ہونا۔

اسْتَنْبَحَ النَّبِيْذَ: نبیذ بنانا۔ العَنْبُ او التَّمْرُ:
نبیذ بننا۔ عَنِ الْقَوْمِ: قوم سے جدا ہونا۔

فَلَانٌ: گوشہ نشین ہونا۔ کہا جاتا ہے "اسْتَنْبَحَ إِلَى
نَاحِيَةِ وَ اسْتَنْبَحَ مَكَانًا" اس نے گوشہ بید میں
اپنے لیے جگہ بنالی۔

التَّبَذَ: مہ۔ تھوڑی سی چیز۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ
مَالُهُ وَ بَقِيَ تَبَذَمُهُ" اس کا مال برباد ہو گیا اور
تھوڑا سا باقی رہ گیا۔ ح: اَنْبَادٌ النَّاسِ اَوْ بَاشِ
لوگ۔

التَّبَذَةُ وَ النَّبَذَةُ: گوشہ۔ کہا جاتا ہے "جَلَسَ
تَبَذَةً" وہ ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔ اور کبھی چیز کے
کلے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ح: نَبَّذَ۔

النَّبِيْذُ: پھینکا ہوا۔ مَوْتٌ نَبِيْذَةٌ: انگور یا کھجور
کی ٹھوڑی ہوئی شراب۔ شراب۔ ح: اَنْبَذَ۔
النَّبَّادُ: نبیذ بیچنے والا۔

المُنْبُذُ: مہ۔ حرای پچھ۔ پچھ جس کو اس کی ماں
نے راستے میں پھینک دیا ہو۔ آج کل کی زبان میں
اچھوت کیلئے استعمال ہے۔

العَبْنَةُ: تکیہ۔ ح: مَنَابِذُ۔
نَبَّرَ (ض) نَبَّرًا: الغَلَامُ: بوڑھا۔ الْمُعْتَقِيُّ:
گوئے کا آواز کو پست کے بعد بلند کرنا۔

الرَّجُلُ: ڈاشنا۔ وَ بِلْسَانِهِ: نصیبت کرنا۔
الْحَزْفُ: ہمزہ لگانا۔ الشَّيْءُ: بلند کرنا۔

الرُّمُوحُ عَنَهُ جلدی سے اٹھانا۔

أَنْبَرُ الْأَنْبَارِ کھیلانا۔

إِنْصَرَّ الْجُنْحُ زخم کا سوجنا — الْخَطِيبُ:

خطیب کا منبر چڑھنا — الْجَسَدُ: جسم کا سوجنا

إِنْصَبَتْ يَدُهُ ہاتھ میں آبلہ ہونا۔

النَّبْرُ مہ۔ بے شرم اور کما جاتا ہے "ظَعْنُ

ظَعْنًا نَبْرًا" اس نے جلدی سے نیزہ مارا۔

النَّبْرُ ایک قسم کی کھٹی یا چھتری۔ بہت زیادہ

پستہ قدرتی بناوٹیں۔

النَّبْرُ وَالْأَنْبَارُ کھیلنا۔ غلہ و سامان رکھنے کی

کوٹھری۔ جِ الْأَنْبَارِ وَالْأَنْبَارُ:

النَّبْرَةُ نَبْرٌ کا اسم مرہ۔ اوپر کے ہونٹ کا

درمیانی گڑھا۔ جس کا درم۔ پستہ آواز کے بعد

بلند آواز۔ گھبراہٹ کی چیخ۔ چیز کا بلند حصہ۔

النَّبْرَةُ بَدَأَ الْقَمَّةَ ج۔ نَبْرٌ۔

النَّبْرِيُّ خیر۔ کہتے ہیں "اَكَلْنَا النَّبْرِيَّ" ہم نے

خیر کھلیا۔

النَّبْرِيُّ مردوانا۔

النَّبْرِيُّ چوڑو۔

النَّبْرُ جِلْدَانِے والا۔ فصیح۔ کما جاتا ہے "وَجِلْدُ"

نَبْرًا بِالْكَوْلَامِ" یعنی مرد فصیح۔

الْمَنْبَرُ بلند جگہ۔ جہاں سے واعظ یا خطیب

لوگوں کو خطاب کرتا ہے۔ بلند ہونے کی وجہ سے

منبر کما جاتا ہے اور آلہ کی تشبیہ کی بنا پر میم کو کسرہ

دیا جاتا ہے۔ جِ مَنَابِرٍ۔

فَصَائِدٌ مَنْبَرَةٌ وَ مَنْبَرَةٌ ایسے قصائد جن کا

قافیہ ہمزہ ہو۔

النَّبْرِيُّس۔ چراغ۔ النَّبْرِيُّس۔ نیزے کا بھالا۔

بھادر دلیر۔ شیر۔ جِ نَبْرَانِيس۔ النَّبْرَانِيس قریب

قریب کوئین۔

النَّبْرِيْس۔ ہوشیار ماہر۔

نَبْرَةٌ (ض) نَبْرًا وَ نَبْرَةٌ۔ عیب لگانا — هُ

بِكَذَا: برالقیب دینا۔

تَنَابَرُوا بِالْأَنْقَابِ: ایک دوسرے کو شرم

دلانا۔ ایک دوسرے کو برالقیب دینا۔

النَّبْرِيُّ برالقیب۔ جِ أَنْبَارٍ۔

النَّبْرِيُّ۔ حسب اور عادات میں کمینہ۔

النَّبْرَةُ لوگوں کو اکثر برالقیب دینے والا۔

نَبَسَ (ض) نَبَسًا وَ نَبَسَةً وَ نَبَسَ

بِالْمَجْلِسِ: بولنا۔ اکثر اس کا استعمال نفی کے

ساتھ ہوتا ہے۔ کما جاتا ہے "مَا نَبَسَ بِكَلِمَةٍ"

— السِّرُّ: بھید چھپانا۔ نَبَسَ الرَّجُلُ: حرکت کرنا۔

جلدی کرنا۔

أَنْبَسَ۔ جلدی کرنا۔ زلت سے خاموش رہنا۔

النَّبَسُ۔ بولنے والے۔ اپنی ضروریات میں

جلدی کرنے والے۔

رَجُلٌ أَنْبَسَ الْوُجْهَ: ترش رو مرد۔ مَوْتٌ

نَبَسًا: جِ نَبَسٍ۔

نَبَسَ (ن) نَبَسًا۔ الشَّيْءُ الْمَسْتُورُ: ظاہر کرنا

— الْكَذْبُ مِنَ الْأَرْضِ: کھود کر نکالنا اور اسی سے

ہے "نَبَسَ الْقَبْرِ" — الْحَدِيثُ: نکالنا —

السِّرُّ: بھیلانا — عَنِ الْأَمْوَالِ: بھیدوں کو نکال

لینا۔ نَبَسَ لِعِيَالِهِ: کمانی کرنا۔

إِنْبَسَ الشَّيْءُ مِنَ الْأَرْضِ: کھود کر نکالنا۔

النَّبَسُ ایک درخت ہے جس کے پتے صورت

کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں اور اس کی کڑوی

سرخ رنگ کی بہت سخت ہوتی ہے۔

النَّبَسَةُ زمین یا کھوٹا کھد ہوا۔

النَّبَاشُ اسم مبالغہ۔ کفن چور۔

النَّبَاشَةُ کفن چور کا پتہ۔

الْأَنْبُوشُ۔ جو کھودا جائے۔ الْأَنْبُوشُ وَ

الْأَنْبُوشَةُ: جڑ سے اکھڑا ہوا درخت۔ جِ أَنْبَاشٍ

أَنْبَاشٍ الْعُنْصَلُ وَ نَحْوِهِ: جگلی یا زکی جڑیں۔

نَبَسَ (ض) نَبَسًا فِي الْمَجْلِسِ: بولنا۔ اکثر

اس کا استعمال نفی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کما جاتا ہے

"مَا نَبَسَ بِكَلِمَةٍ" بس میں ایک لغت ہے۔ اور

نَبَسَ فَصَحَ ہے۔ نَبَسَ الشَّعْرُ: بال اکھیرنا۔

نَبَسَ (ض) نَبَسًا الطَّائِرُ: پرندہ کا آہستہ

چھپانا۔

النَّبَسُ مہ۔ ہیزی کی کوئیل۔

النَّبَسَةُ: نبض کا اسم مرہ۔ کتہہ۔ کما جاتا ہے "مَا

سَمِعْتُ لَهُ نَبَسَةً" میں نے اس سے ایک کلمہ

نہیں سنا۔

نَبَسَ (ض) نَبَسًا وَ نَبَسًا الْعَوْقُ: رگ کا

حرکت کرنا۔ نَبَسَتْ الْأَمْعَاءُ: مضطرب ہونا۔

نَبَسَ النَّبْرِيُّ: بجلی کا آہستہ چمکانا — نَبَسًا

الشَّعْرُ: بال اکھیرنا۔

نَبَسَ (ن) نَبَسًا الْمَاءُ: پانی بہنا یا گرمائی

میں جانا۔

نَبَسَ فِي الْقَوْسِ وَ أَنْبَسَ الْقَوْسُ وَ عَنِ

الْقَوْسِ وَ فِي الْقَوْسِ: آواز نکلنے کیلئے تانت

کھینچنا۔ أَنْبَسَ الْوَتْرُ وَ بِالْوَتْرِ: آواز نکلنے کے لیے

کھینچنا۔

النَّبَسُ۔ دل اور شریان کی حرکت جس سے

صحت اور مرض کا حال معلوم ہوتا ہے۔ جِ

أَنْبَاضٍ وَ النَّبْضَةُ: ایک ضرب نبض کی۔

فَوَ اذْ نَبَسَ وَ نَبَسَ وَ نَبَسَ: تیز دل۔

النَّبَاضُ۔ فہ۔ تیر انداز پتھا۔ کما جاتا ہے "نَبَسَ

نَابِضًا" اس کا غصہ بھڑکا۔

الْمُنْبَضُ۔ نبض دیکھنے کی جگہ۔ جِ مَنَابِضٍ۔

الْمُنْبِضُ۔ دھینے کی کمان۔ جِ مَنَابِضٍ۔

نَبَطَ (ض) نَبَطًا وَ نَبَطًا الْمَاءُ: زمین یا

چشمہ سے ابلنا۔ نَبَطَ (ض) نَبَطًا وَ نَبَطًا

أَنْبَطًا وَ نَبَطًا وَ اسْتَنْبَطَ الْبَيْتُ: کوئیں سے پانی

نکالنا۔ نَبَطًا وَ أَنْبَطًا وَ اسْتَنْبَطَ الشَّيْءُ: پوشیدگی

کے بعد ظاہر کرنا۔ أَنْبَطَ الْحَكْمُ: اجتہاد سے

نکالنا۔ أَنْبَطَ فِيهِ: اثر کرنا۔ اسْتَنْبَطَ: ایجاد کرنا۔

وَ اسْتَنْبَطَ مِنْ فُلَانٍ خَيْرًا: نکالنا۔ اسْتَنْبَطَ

الْفَقِيهَ: فقہیہ کا اپنی سمجھ سے قرآن وحدیث کے

باطنی معنی کو نکالنا۔ اور کما جاتا ہے "اسْتَنْبَطُوا

أَنْبَطًا وَ اِيَّا حَسَنًا وَ مَعْنَى صَانِعًا" اچھی رائے

یا درست معنی ظاہر کرنا۔ وَ اسْتَنْبَطَ الْعَرَبُ:

نبطی ہونا۔

نَبَطَ۔ نبطیوں کے مشابہ ہونا یا نبطیوں کی

طرف منسوب ہونا۔

إِنْبَطَ الْكَلَامُ: اجتہاد سے نکالنا۔

النَّبَطُ۔ کوئیں کا پہلا پانی۔ کما جاتا ہے "فَلَانٌ

قَرِيبُ الْقَرْيَةِ يَعِينُهُ النَّبَطُ" جبکہ وعدہ کرے اور

وفاء نہ کرے۔ جِ أَنْبَاطٌ وَ نَبُوطٌ: مرو کی اندرونی

حالت۔ کما جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَنْدُرُ لَكَ نَبَطَةٌ" فلان

کی اندرونی حالت اور اس کے علم کی گرمائی نہیں

معلوم کی جاسکتی۔ گھوڑے کی بغل اور پیٹ کی

سیدی۔

النَّبَطُ۔ ایک عجمی قوم جو عراقین کے درمیان

بِالسُّهْمِ: تیرمارتا — هُوَ بِالطَّلَامِ: تھوڑا تھوڑا
 دے کر مشغول رکھنا — الرَّجُلُ: تیز چلنا —
 الْإِبِلُ: اونٹ کو تیرمارتا — هُوَ: نجابت و شرافت
 میں غالب ہونا — يَهْ: نرمی برتا — عَلِيٌّ
 الْقَوْمِ: تیر اندازی کے لیے جن جن کے دینا۔
 نَبِيلٌ (ك) نَبَالَةٌ: نجیب و شریف ہونا۔ صفت
 نَبَلٌ وَ نَبِيلٌ: مؤنث نَبَلَةٌ وَ نَبِيلَةٌ ج نَبَالٌ وَ
 نَبَائِلٌ وَ نَبَالَاتٌ وَ نَبَائِلَاتٌ: نَبَلٌ عَنْ كَذَا: بڑا
 ہونا۔
 نَبَلُ الرَّجُلِ: تیر دینا۔ اسے کھیل دینا۔
 أَنْبَلَهُ: تیر دینا۔ أَنْبَلَ الْقِدَاحِ: موٹے بدنما تیر
 بنانا — النَّخْلُ: درخت خرما میں کی کھجوریں
 ہونا۔
 نَابِلَةٌ مُنَابِلَةٌ: نجابت و شرافت میں مقابلہ کرنا۔
 تَنْبَلٌ: ذکی ہونا۔ نجیب و شریف ہونا۔ اَنْبَاءٌ وَ
 شُرَفَاءٌ کے مشابہ بننا۔ مرنا — الْمَالُ عَمْرَهُ
 چھانت لینا۔ تَنْبَلْتُ الْخَطُوبُ: حواصت کا بڑا
 ہونا۔
 تَنْبَالُ الْقَوْمِ: شرافت یا تیر سازی میں مقابلہ
 کرنا۔
 اِنْتَبَلُ: مرنا اور بدو اور ہونا — فَلَانًا: قتل
 کرنا — الْخَطْبُ: حادثہ کا بڑا ہونا —
 يَلْأَمُو: خبردار اور مستعد ہونا — الشَّيْءُ:
 یکبارگی اور جلدی اٹھانا۔
 اِسْتَنْبَلُ الْمَالُ: عمدہ لینا — الرَّجُلُ: تیر
 طلب کرنا۔
 النُّبَلُ: مر - تیر واحد نُبْلَةٌ ج نَبَالٌ وَ اَنْبَالٌ وَ
 نُبُلَانٌ: نَبَلُ الدَّهْرِ: حواصت زمانہ۔
 النُّبُلُ: زکات۔ نجابت۔ شرافت۔ فضیلت۔
 کمال جسم۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ يَلْأَمُهُ نُبْلَةً" اس
 نے کام کے پورا کرنے کا سامان لے لیا۔
 النُّبَلُ وَ النُّبُلُ: بڑے بڑے یا چھوٹے چھوٹے
 چھروا واحد نُبْلَةٌ وَ نُبْلَةٌ۔
 رَجُلٌ نَبِيلٌ: مرد شریف۔ مؤنث نَبِيلَةٌ۔
 النُّبْلَةُ: عطیہ۔ ثواب اور بدلہ۔ چھوٹا لقمہ و
 نُبْلَةٌ كُلُّ شَيْءٍ: عمدہ چیز ج نُبَلَاتٌ۔
 النُّبَالَةُ: مر - زکات۔ نجابت و شرافت و
 فضیلت۔

ہونا — زَامَةٌ: سر میں بھوسی ہونا — الرَّجُلُ:
 عمدہ اشعار رکھنا — فِي الْعِلْمِ وَ غَيْرِهِ: فائق ہونا
 — فِي الدُّنْيَا: آسودہ زندگی والا ہونا اور کہا جاتا
 ہے "تَبِعَ فِيهِمُ الْيَقَافُ" ان کے اندر نفاق ظاہر
 ہو گیا بعد اس کے کہ وہ چھپاتے تھے۔
 اَتَّبَعَ الْبَلَدُ: شہر میں بہت آتا جانا — النَّاجِلُ:
 آتا چھاننا۔
 التَّبِيعُ وَ التَّبَاعُ: چلنی کا غبار۔
 تَبِعَةُ الْقَوْمِ: قوم کے بہترین لوگ۔
 التَّبَاعَةُ: ج نَوَابِيعُ: فصیح۔ مرد عظیم الشان
 القَوَابِيعُ: آٹھ فصیح و بلیغ شاعروں کا لقب۔ اور
 نسبت کے لیے التَّبَاعِيُّ: القَوَابِيعُ: بارہ لوزریاں۔
 التَّبَاعَةُ: کلمہ فصیح۔
 التَّبِيعُ: مرد عظیم الشان ج تَبِيعَاءُ۔
 التَّبَاعُ وَ التَّبَاعُ وَ التَّبَاعَةُ وَ التَّبَاعَةُ: آٹا۔ سرکی
 بھوسی۔ مَصْحُوحَةٌ تَبَاعَةٌ: گرد و غبار والا راستہ۔
 تَبِيعُ (ن) تَبِيعًا الشَّيْءُ: لکھنا اور ظاہر ہونا۔
 الرَّجُلُ: لکھنا۔
 تَبِيعُ الشَّيْءِ: لکھنا اور ظاہر ہونا — الرَّجُلُ: لکھنا
 — الْكِتَابُ: ترتیب سے لکھنا — الشَّجَرُ:
 ترتیب سے پودے لگانا — النَّخْلُ: خراب ہونا
 اور کھجوروں کا بھری کے مانند چھوٹا ہونا۔
 تَبِيعٌ وَ تَبِيعٌ وَ اَنْبِيعٌ: وادی میں ایک قطار میں پودا
 لگانا۔
 اِنْتَبِيعُ الْكَلَامُ: نکلوانا۔
 التَّبِيعُ: مر - بیٹھا آنا جو درخت خرما کے سہ سے
 بنایا جاتا ہے۔
 التَّبِيعُ وَ التَّبِيعُ وَ التَّبِيعُ وَ التَّبِيعُ: بھری واحد۔
 تَبِيعَةٌ۔
 التَّبِيعَةُ: انگور کے خوشے نکلنے کی جگہ میں گرہ
 جگہ بڑی ہو جائے۔ ج تَبَائِقُ۔
 تَبَيْكُ (ن) تَبَيْكًا وَ اَنْتَبَيْكُ الْمَكَانُ: بلند ہونا۔
 التَّبَايِكُ: بلند جگہ۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ تَابَيْكٌ وَ
 اَرْضٌ تَابَيْكَةٌ" ج تَبَايِكُ۔
 التَّبَيْكَةُ وَ التَّبَيْكَةُ: نوک دار ٹیلہ یا چھوٹا ٹیلہ۔ ج
 تَبَيْكٌ وَ تَبَيْكٌ وَ تَبَايِكٌ وَ تَبَيْكَةٌ: درخت
 کی بڑ۔
 نَبَلُ (ن) نَبَلًا الرَّجُلُ: تیر مارنا یا تیر دینا نَبَلُ

آباد رہتی تھی۔ پھر اس لفظ کا استعمال عوام الناس
 کیلئے ہونے لگا اور اسی سے ہے جو ماہر جاتا ہے
 كَلِمَةٌ تَبِيعَةٌ یعنی عام کلمہ۔ واحد نَبِيعٌ وَ
 تَبَائِقُ وَ تَبَائِقُ ج اَنْبَائِقُ وَ نَبِيعٌ
 التَّبِيعَةُ: کونین کا پہلا پانی۔ گھوڑے کی بغل
 اور پیٹ کی سپیدی۔
 الْاَنْبِيعُ مِنَ الْغَنِيْلِ: بغل اور پیٹ کی سپیدی
 والا گھوڑا۔ مؤنث تَبِيعَةٌ ج تَبِيعَاتٌ۔
 تَبِعَ (ن) وَ تَبِعَ (س) وَ تَبِعَ (ك) تَبِعًا وَ تَبِيعًا
 وَ تَبِعَانًا الْمَاءُ: چشمہ سے لکھنا۔
 تَبِيعَ الْمَاءُ: تھوڑا تھوڑا لکھنا۔
 التَّبِيعُ: مر - ایک درخت جس سے تیر و کمان
 بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "فَرَعُوْا التَّبِيعَ
 بِالتَّبِيعِ" وہ لوگ باہم ملے اور آپس میں نیزہ بازی
 کی "وَمَا زَايَاتٌ اَصْلَبُ مِنْهُ نَبْعًا" میں نے اس
 سے زیادہ کسی کو سخت نہیں دیکھا — عِنْدَ
 المولدين: پانی کا چشمہ اور عرب کے امثال سے
 ہے "لَوْ اِقْتَدَحَ بِالتَّبِيعِ لَأَوْرَى نَارًا" اگر
 درخت نبع کی لکڑی سے آگ نکالے تو بھڑکا
 دے یہ مثال جو دت رائے کیلئے بیان کی جاتی ہے
 اسلئے کہ درخت نبع کی لکڑی آگ نہیں پکرتی۔
 التَّبِيعَةُ: التَّبِيعُ کا واحد۔ کمان پر بھی اطلاق ہوتا
 ہے اور کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ تَبِيعَةٍ كَرِيمَةٍ" وہ
 شریف خاندان سے ہے۔
 التَّبَاعَةُ: النَبَاعُ کا مؤنث۔ ج نَوَابِيعُ۔
 نَوَابِيعُ النَّبِيعِ: اونٹ کے پیسہ والے اعضاء۔
 التَّبِيعُ: پیسہ۔
 التَّبَاعَةُ: ڈیر۔ بچے کی چند یا جب تک کہ نرم ہو
 اور جب سخت ہو جائے تو اس کو یافوخ کہتے ہیں۔
 التَّبِيعَةُ: درخت نبع کی بنی ہوئی کمان۔
 الْمَتْبَعُ: چشمہ۔ ج مَتَابِعُ۔
 التَّبِيعُ: ج۔ بہت پانی والا نارج تَبَائِيعُ۔
 کہا جاتا ہے "فَجَرَّ اللَّهُ تَبَائِيعَ الْحِكْمَةِ عَلَيَّ
 لِسَابِيهِ" اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کے چشمے
 اس کی زبان پر جاری کر دیئے۔
 تَبِعَ (ن) تَبِعًا وَ تَبِيعًا وَ تَبِيعًا الشَّيْءُ: لکھنا اور
 ظاہر ہونا — الْمَاءُ: پانی کا چشمہ سے لکھنا
 الْوِعَاءُ بِالْذَّقِيْنِ: جھنڈا — الشَّرُّ: چھینا ظاہر

زخم کا سوجنا — الفذی: پستان اور ہوتا —
الجاریہ: بالغ ہونا — علی القوم: ظاہر ہونا۔
اننتا الشی: بلند ہونا۔

التائی: فا۔ ہر بلند چیز جیسے مکان وغیرہ اور اس
میں تخفیف ہمزہ بھی جائز ہے تم کو گے تائی جیسے
قاری و قاری۔

التوء: ص (والتقاء) بیل۔

نصب (ن) نثونا الشی: بمعنی تصا۔

نتح (ض) نتحنا الماحض من البہائم: بچہ
جنے میں خبر گیری کرنا۔ صفت ناتیج: بھیمہ کو
منثو حہ اور بچے کو نتیجہ کہتے ہیں اور کہا جاتا
ہے "نتحہا ولدا" اس نے بچہ جوایا۔ و نتح
الرجل الحامیل: حاملہ عورت نے مرد کے پاس
بچہ دیا۔ نتح الشی من الشی: نتیجہ لگانا۔

نتحت و نتجت نتاحوا و نتجت البہیمۃ
ولدا: جنا۔ و نتح الولد: جنا جاننا اور کہا جاتا ہے
"نتجت الزیخ السحاب": بارش برسانا۔
نتح القوم: بچہ والی موشی کمالک ہونا۔

نتح: بمعنی نتح۔ نتیجہ دیکھنے کے لیے ہے۔

انتح القوم: حاملہ اونٹنی اور بکریوں کا
مالک ہونا۔ جنے والی اونٹنی اور بکریوں کا مالک ہونا۔
انتجت البہیمۃ: جنے کے قریب ہونا۔ صفت
نتوح اور منتح نہیں کہا جاتا۔ انتح الشی من
الشی نتیجہ لگانا۔

انتجت الزیخ السحاب: بارش برسانا۔
نتجت البہیمۃ: ولادت کے وقت نتح و
تاب کھانا۔ انتجت و نتجت الابل: بچہ جانا
و انتجت الثاقۃ غیر معروف جگہ میں بچہ دینا۔
منتح بچہ جوانا۔ نتیجہ لگانا۔

النتاج: جانوروں کے بچہ جننے کی حالت اور کہا
جاتا ہے "بالثاقۃ نتاج" یعنی اونٹنی کو حمل ہے۔
النتیجۃ: بچہ۔ نتیجہ نتاج اور کہا جاتا ہے
"عتم فلان نتاج" فلاں کی بکریاں ایک عمر کی
ہیں۔

الناتج: فال لبہائم: جنائے والا۔

النوح: حاملہ چوپایہ۔

المنجج: بچہ جننے کا وقت۔

المنقحۃ: در۔

یعنی شرفاء (مفرد اور جمع کے لیے اس لیے کہ
مصدر ہے)

التیاء: اوپر کو نکلا ہوا بلند۔

المنہۃ: سب بیداری۔ کہا جاتا ہے "ہذا
منہۃ علی کذا" یہ فلاں چیز کو بتلانے والا ہے۔
زجل منثورا لاسم: مشہور و معروف۔

نبتا بنو نبوۃ و نبوا و نبیا نبصرۃ: نگاہ کا حدیلا
ہونا۔ صفت ناب — الشی: دور ہونا اور پیچھے
ہونا (— نبوا و نبوۃ) الشیف عن الصریبۃ
تلوار کا چٹ جانا — جنبہ عن الفواش: بے
چین رہنا — السہم عن الہدف: تیر کا نشان

سے خطا کرنا — الطغ عن الشی: نفرت کرنا
— عن الشی: زائل ہونا — بین فلان: ظلم
کرنا۔ کہا جاتا ہے "نبت بین تلک الأرض" یہ
زمین مجھے موافق نہیں آئی — المکان بفلان:
ناموافق ہونا — علیہ الأمر أو الصاحب: کھرا

نہ ہونا۔ صاف نہ ہونا۔ نبت صوۃ فلان:
بد صورت ہونا۔ یہاں تک کہ آنکھ دیکھنے سے انکار
کرے۔

آبئی الشیف: تلوار کو کند کرنا۔

التبوء: مہ۔ نبوۃ الزمان: زمانہ کی معنی (—
والتبوءۃ) بلند زمین۔

التبوی والتبوءۃ: بیجا مرویجا مہری۔

(دیکھئے واہنبا) والتبوی من الأراض: بلند زمین۔
التبوءۃ: شرافت و ریاست کی طلب۔ پیش
قدی۔

التبوی: بلندی و ارتفاع۔

التبوی: چونکہ والی تلوار یا تیر۔ موٹا۔ لڑائی میں
پشت پھیرنے والا۔

التابۃ: النہای کامونٹ۔ کمان۔

نعت (ض) نعتنا القدر: ہانڈی کا بلانا۔

نعت (ن) نتا و نتیقا مشحورۃ: غصے سے متننے
پھلانا۔

نعت العتبر: بیان کرنا۔

نعتت الزجل: صفائی کے بعد کندہ ہونا۔

النعتۃ: چھٹا سا گڑھا جس میں پانی جمع ہو۔

نتا (ف) نتا و نتوۃ الشی: بغیر جدائی کے اپنی
جگہ سے ہٹ جانا۔ بلند ہونا۔ پھولنا — القرحۃ:

النبالۃ: تیر سازی کا پیشہ۔
النبالۃ: کسی چیز کے پورا کرنے کا سامان۔ کہا
جاتا ہے "أخذ لأمر نبالۃ" اس نے کام کے
پورا کرنے کا سامان لے لیا۔

التبیل والتبیل: شرافت والا۔ فضیلت والا
التبیل: بڑے جسم والا۔ اور کہا جاتا ہے "إنه
تبیل الرای" وہ عمرہ رائے والا ہے۔ ج تبیل۔

التبیلۃ: تبیل کامونٹ۔ مردار ج تبائل۔

التبیل: ج تبیل و تبیل والتبیل: ج تبالۃ: تیر
والا۔ تیر انداز۔ تیر ساز۔ تیر اندازی میں ماہر کہتے

ہیں "أختلط الحامیل بالتبیل" مثال ہے اس
وقت بولتے ہیں جبکہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔
کہا گیا ہے کہ حائل سے تانا اور تامل سے پانا مراد
ہے۔

الأتبیل: اسم تفصیل۔ تیر اندازی کا زیادہ جاننے
والا۔

التبیل والتبیلۃ: دیکھئے۔ تبیل۔

تبہ (س) تبہا للأمر: سمجھ جانا۔

تبہ (س) انہما من نؤمہ: نیند سے بیدار ہونا۔

تبہ (ن) و تبہ (س) و تبہ (ک) تبہا شریف

ہونا۔ مشہور ہونا۔ صفت نابہ و تبہ و تبہ و تبہ۔

نتہ من نؤمہ: نیند سے بیدار کرنا — ع علی

او الی الأمر: واقف کرنا۔ جانا۔ تبہ یا سبہ

مشہور کرنا۔ گمانی سے نکالنا۔

آتبہ الحاجة: بھولنا — ع من القوم: بیدار

کرنا۔

قتبہ من نؤمہ: نیند سے بیدار ہونا — علی

او للأمر: واقف ہونا۔ سمجھ جانا۔

استتبہ من نؤمہ: نیند سے بیدار ہونا۔

التبہ: سمجھ۔

التبہ: مہ۔ کوئی ہوئی چیز جو بغیر تلاش و جستجو

کے مل جائے۔ کہا جاتا ہے "و جدت الضالۃ

تبہا" میں نے تم شدہ چیز کو بغیر تلاش کے پایا۔

مشہور شے موجود۔

التباہۃ: شرافت۔ سمجھ۔ شرت۔

التابہ والتبہ والتبہ والتبہ: شریف۔ سمجھ

زار۔ شرت والا۔ ج تبہا أمر نابہ: بڑا کام۔ کہا

جاتا ہے "زجل تبہ" مرد شریف و "قوم تبہ"

النشل والنشل - شتر مرغ کا اٹرا جو پانی بھر کر جاڑے کے زمانہ میں ڈور ڈور میدانوں میں زمین کے اندر دوایا جاتا ہے تاکہ گرمی کے زمانہ میں جب پانی کی ضرورت پڑے تو کام آئے۔ زَجْلٌ نَقْلٌ: مرد پست قدم۔ التیتلة - وسیلہ۔

نَقْنٌ (ض) و نِقْنٌ (س) نَقْنًا و نَقْنٌ (ک) نَقْنًا و نَقْنًا و نَقْنٌ و نَقْنٌ - بدو دار ہونا۔ صفت نِقْنٌ و نِقْنٌ و نِقْنٌ و نِقْنٌ اور نِقْنٌ کی مؤنث نَقْنٌ جیسے زَمِينٌ كِزْمِيٌّ - نَقْنٌ الشَّقِيُّ: بدو دار کرنا۔ التیتون - ایک بدو دار درخت۔

المعشيتين - بدو دار۔ ج مَنَاتَيْنِ - کہا جاتا ہے "وَجَالٌ اَوْ اَبْطَالٌ مَنَاتَيْنِ" بدو دار لوگ۔ یا بدو دار بشل۔

المَمَاتَيْنِ - بدو کی جگہیں۔ واحد مَمَاتِنٌ - نَقَانِيثُ و نَقَانِيثُ العَضُو: سوچنا۔ صفت نَابٌ - اَنْفَى اِنْتَاءً: پیچھے ہٹنا۔ ہ: صورت و سیرت میں مشابہ ہونا۔

نَقْنِي عَلَيْهِ: کسی پر چڑھ بیٹھنا۔ اِسْتَنْفَى اِسْتِنَاءَ الدَّمَلِ: پھوڑے کا پکنا اور پھوٹنے کا وقت قریب ہونا۔

نَقْنٌ (ن ض) نَقْنَا الخبز: پھیلا نا۔ العجْرَحُ: زخم پر تیل لگانا۔ نَقْنٌ (ض) نَقْنَا و نَقْنَا الزَّقِي: منگ کا پکنا۔ الزَجْلُ: ہونٹوں کی وجہ سے ہینہ والا ہونا۔ العَظْمُ: ہڈی سے گودا ہونا۔

نَقْنٌ القَوْمِ الاَخْبَارِ: ایک دوسرے کو خبر بتلانا۔

النَقْ - مہ - نمناک دیوار۔ النيشات - زخم پر لگانے کا تیل۔ النقیفة - منگ سے پکا ہوا۔

النقثات و المنث - بھید یا بات کو مست پھیلانے والا۔

النقثات - غیبت کرنے والے۔ واحد نَقْتٌ - المنقفة - اون کا کلرا جس سے زخم پر تیل لگائیں۔ ج مَنَاتٌ و مَنَاتٌ - نَبَتْ (س) نَقْنَا اللحم: گوشت کا بدو دار

ہونا۔ نَفَجٌ (ض) نَفَجًا بظَنَّةٍ بِالسَّكِينِ: بیت چھاڑنا۔

مَافِي نَظْمِي: آنتوں کو خالی کر دینا۔ اِسْتَفْجَحَ - اَحَدَ الْعَدْلَيْنِ: ڈھیلا پڑ جانا۔ اَلْبُيْجُ - بزدل۔ بے برکت۔

المِنْدَجَةُ - دبر۔ نَبَذَ (س) نَبَذَ الزَّجْلُ: ٹھہرنا۔ اَلْكَمَاءَةُ: ساپ کی چھتری کا اگانا۔

نَقْرَانٌ (ض) نَقْرًا و نِقْرًا الشَّقِيُّ: بکھیرنا۔ نقر میں گھنگو کرنا۔ اَلذِّبَعُ عَيْنُهُ: زرہ کو اتار دینا اور کہا جاتا ہے "نَقَرَتِ الْمَرْأَةُ بَظَنَّتِهَا" یعنی اس کے سینے پر ہت بھونے "وَ اَخَذَ فُلَانٌ دِرْعًا فَتَقَرَّهَا عَلَي نَفْسِهِ" فلاں نے زرہ لی اور اپنے اوپر ڈال لی۔

نَقَرَتِ (ض) نَقَرَتِ الدَّابَّةُ: جھینکا اور کہا گیا ہے کہ نقر جانوروں کیلئے ہے جیسے غظاس آدمیوں کے لئے۔

اَنْقَرُ: ناک جھاڑنا۔ ہ: ناک کے بل گرنا۔ نَقْرٌ - الشَّقِيُّ: بکھیرنا۔

نَقَرَتْ و نَقَرَتْ و اِنْقَرَتْ - الشَّقِيُّ: بکھیرنا۔ کہا جاتا ہے "نَقَرَتْ الْقَوْمُ" قوم کے لوگ بیمار ہوئے اور مرے۔

اِنْقَرَتْ و اِسْتَنْقَرَتْ - ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا۔

النقور - مہ - ضد لقمہ۔ النقرة - نثر کا اسم مرہ۔ کلام نثر کا ایک ٹکڑا۔ نقتنا اور اس کا ارد گرد۔ چھینک۔ کشادہ زرہ۔ دونوں طرف کی مونچھوں کے درمیان کا گڑھا۔

النقور و المنشر و التیتون - ہت بولنے والا۔ بھیدوں کا ہت ظاہر کرنے والا۔

زَجْلٌ نَقْرًا و اِمْرَاةٌ نَقْرًا: ہت صاحب اولاد مرد یا عورت۔

النقير - بکھیرا ہوا۔ کلام نثر - کہا جاتا ہے "كَانَ لَقَطَةً نَقِيرِ الذَّرْوِ الذَّرْوِ النَّقِيرِ" گویا اس کے الفاظ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔

النقار - مہ - شادی کے موقع پر جو بکھیرا جائے۔ النائر - نا۔ نثر بولنے والا یا لکھنے والا۔ نخلعة نائز: کچی گھوڑیں گرانے والا درخت۔

المنشر - مہ - پتھر کا کارہ آدمی۔

المنشار - کچی گھوڑیں گرانے والا درخت۔

المنشور - مہ - مِنَ الْكَلَامِ: ضد منظوم

المنشور: ایک تیز خوشبو والا پھول دار پودہ۔ واحد منشورۃ۔

نَقَطَهُ (ن) نَقَطًا - فُلَانًا: بوجھل کرنا۔

اَلْكَمَاءَةُ: ساپ کی چھتری کا زمین سے لگانا۔

نَقَطًا و نَقَطًا: ساکن ہونا۔ قرار پانا۔

نَقَطَهُ - آرام دینا۔

اَنْفَعُ - ہت بھونے کرنا۔ اَلْقِي اَو الدَّمُ: قے یا خون لگانا۔

نَقَلَ (ن) نَقَلًا اَلْقَرُوسُ و كَلْبٌ ذِي خَافِرٍ: لید کرنا۔

نَقَلَ (ن ض) و اِنْقَلَ البَيْتُ: کونیس سے مٹی نکالنا۔

نَكَانًا - العجْرَابُ: توشہ دان خالی کرنا۔

الکینانۃ: ترکش سے تیروں کو نکالنا اور بکھیرنا۔

نَقَلَ الذِّبَعُ عَيْنَهُ: زرہ کو اتار پھینکانا۔ اللعجم فی القنبر: گوشت کو ہانڈی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالنا۔

علی فُلَانٍ دِرْعًا: زرہ پہنانا۔ اور کہا جاتا ہے "نَقَلْتُ حَفْرَتَهُ" یعنی اس کی قبر کھودی گئی۔

اَنْقَلَ البَيْتُ: کونیس سے مٹی نکالنا۔

نَقَالُ القَوْمِ اِلَيْهِ: اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔

اِسْتَنْقَلَ الكِنَانَةَ: ترکش سے تیروں کو نکال کر بکھیرنا۔

النقل - کھودا ہوا۔ کہا جاتا ہے "بَشْرَكَ نَقْلًا" تمہارا آنکواں کھدا ہوا ہے۔

النقلة نَقَلَ کاسم مرہ۔ دونوں مونچھوں کے درمیان کا گڑھا۔ کشادہ زرہ۔

النقيل - لید۔

النقالة و التیتلة - کونیس سے نکالی ہوئی مٹی۔ بقية التیتلة: ہونا گوشت۔

المنقلة - زنبیل۔

نَقَمَ (ض) نَقَمًا و اِنْقَمَ: غش بکنا۔

نَقَا يَنْقُو نَقْوًا اَلْحَدِيثُ: بیان کرنا۔ پھیلا نا۔

الشَّقِيُّ: حترق کرنا۔ فُلَانًا: غیبت کرنا۔ عَلَيهِ قَوْلًا: کسی کی جانب سے خبر دینا۔

نَقَانِي القَوْمِ اَلْحَدِيثُ: آپس میں ایک

دوسرے سے کنا — الشئی: ایک دوسرے کو یاد دلانا۔

التافی۔ فاعلیت کرنے والا۔

التفوة۔ لوگوں کی عیب جوئی۔

التفأ۔ کسی کے مطلق اچھی یا بُری خبر۔

نقی نیشی نشیا الخبیر: بیان کرنا یا پھیلاتا۔

ألفی من الشئی: ناک بھوں چڑھانا۔ فلاناً:

غیبت کرنا۔

نَحَّ (ض) نَحًّا وَنَحِيجًا الرَّجُلُ: جلدی

کرنا۔ صفت نَحُوج — الفَرْحَة: زخم سے

مواہبانہ۔

نَحَّ (ن) نَحًّا الشئی مِنْ فِیْهِ: منہ سے پھینکنا۔

نَحَاة (ف) نَحًّا وَتَحَاةً وَالتَّحَاةُ نَحْرُ بَدَنِ

الکاتب۔

رَجُلٌ نَحُو الْعَيْنِ وَنَحُوذُهَا وَنَحِيْهَا وَ

نَحِيْئُهَا: بہت تیز نظر لگانے والا۔

نَحَاة السَّائِلِ: ہانکنے والے کی حریصانہ نظر۔

نَحَب (ک) نَحَابَة الْوَلَدُ: شریف الاصل

ہونا۔ قول و فعل میں لائق ستائش ہونا۔ صفت

نَحِيْبٌ۔

نَحَب (ض ن) نَحِيْبًا وَنَحَبٌ وَانْتَحَبَ

الشَّجُوْرَة: درخت سے چھال اتارنا۔

وَانْتَحَبَ الشئی: چننا۔ برگزیدہ کرنا۔

انْتَحَبَ: شریف الاصل ہونا — الرَّجُلُ:

شریف بچوں کا باپ ہونا۔ بزدل بیٹے کا باپ ہونا۔

اور کہا جاتا ہے "انْتَحَبَ بِهٖ اَبْوَاهُ" اس کے

والدین نے شریف پتہ بنا۔

اسْتَنْحَبَ: شرفاً و طلب کرنا۔

الْتَحَبَ وَالتَّحَبَ: حلی۔ شریف۔ فیاض۔

التَّحَبَ مِنَ الشَّجَرِ: چھال یا جڑ کی چھال۔

التَّحَابَة: شرافت۔

التَّحِيْبُ: شریف۔ شریف خاندان۔ ج

اَنْحَابٌ وَنُجَبَاءٌ وَنُحْبٌ مَوْنٌ نَحِيْبٌ وَ

نَحِيْبَةٌ: ج نَحَابِیْب۔ نَحَائِبُ الشئی وَ

نَوَاجِبُہ: کسی چیز کا مغز جس پر چھلکا نہ ہو۔

خالص۔

الْمُنْحَابُ (مذکر مؤنث) ج مَنَاجِيْبُ

وَالْمُنْحَبُ ج مَنَاجِبُ۔ مَوْنٌ مُنْحَبَةٌ:

شریف اولاد والا ہونا۔ الْمُنْحَابُ: ست و کزور

بغیر روپکان کے تیر۔ کر۔ لٹی۔

الْمُنْحَوْبُ: کشادہ برتن۔

نَحَثَ (ن) نَحْثًا وَتَنَحَّثَ عَنِ الْأَمْرِ: کھود

کرید کرنا۔ تفتیش کرنا — الشئی: نکالنا۔ نَحَثَ

الْقَوْمُ: قوم سے فریاد کرنا۔

تَنَحَّثَ الْقَوْمُ الْأَخْبَارَ: ایک دوسرے کے

سامنے ظاہر کرنا۔

انْتَحَثَ وَاسْتَنْحَثَ الشئی: نکالنا

اِسْتَنْحَثَ لِلشئی: درپے ہونا۔

التَّحَثُ وَالتَّحَثُ: دل کا غلاف۔ زرہ۔

مکان۔ ج اَنْحَاث۔

رَجُلٌ نَحَثٌ: خبروں کی تلاش و جستجو رکھنے

والا۔

التَّحَاثُ: امور کی کھود کرید کرنے والا۔

التَّحِيْبُ: حلی۔ نیش۔ ست۔

التَّحِيْبَةُ: بڑی خبر جو ظاہر ہو جائے۔ کنوئیں اور

جوہری مٹی۔

نَحَّجَ (ف) نَحْحًا وَنَحْحًا وَنَحَّحًا الْأَمْرَ:

آسان و سہل ہونا۔ نَحَّحْتَ حَاجَةً فَلَانٌ وَ

نَحَّحَ فَلَانٌ بِحَاجَتِهِ: کامیاب و فتح مند ہونا۔

نَحَّحَهُ: کامیاب کرنا۔

انْتَحَحَ: کامیاب و فتح مند ہونا — اللہ

حَاجَتَهُ: حاجت پوری ہونا۔ صفت مُنْحَجِجٌ ج

مَنَاجِيْحٌ وَ مَنَاجِيْحٌ وَانْتَحَحَ فَلَانٌ بِالنَّاهِلِ:

باطل پر غالب ہونا و انتَحَحَ البَاطِلُ بِفُلَانٍ: باطل

کا غالب ہونا۔

تَنَحَّحَ الْحَاجَةَ: وعدہ کرنے والے سے پورا

کرنے کو کہنا۔

تَنَاجَحَتْ عَلَيْهِ آخِلَامُهُ وَ مَسَاعِيْهِ: پے پے

پے درست ہونا۔

اسْتَنْحَجَ فَلَانًا حَاجَتَهُ: حاجت پوری کرنے

کو کہنا۔

التَّجَا حِ وَالتَّجَحُ: مہ۔ کامیابی۔

التَّجَا حَة: صبر۔

التَّجَا ح: فاعلیت نَاجِحٌ: سخت اور تیز چال۔

التَّجَحِيْحُ: درست رائے۔ کہا جاتا ہے "زَائِي

نَحِيْحٌ" وہ شخص جس کی رائے درست ہو اور

اس کے امور کامیاب ہوتے ہوں۔ صابر۔

مَوْنٌ نَحِيْحَةٌ۔ کہا جاتا ہے "نَفْسٌ نَحِيْحَةٌ۔

سَمِيْرٌ نَحِيْحٌ": تیز چال۔ مَكَانٌ نَحِيْحٌ:

قریب جگہ۔

نَحَّجَ (ف) نَحْحًا: فخر کرنا — التَّوْبَةُ: پھرتی

کا جوش میں آنا — السَّنِيْلُ: یکبارگی زور سے

آنا۔

التَّبِيْعِيُّ: بد بھشی والا ہونا۔ صفت نَحَّجَ الْبِيْعُ

بِکونوں کھودنا۔

تَنَاجَحَ الْمَوْجُ: موج کا ایک دوسرے سے

ٹکراتا۔ تَنَاجَحًا: باہم ٹکراتا۔

التَّجَا ح: فاعلیت کھانے والا۔ تَاجِحُ الْبَحْرُ:

سندر کا شور۔

التَّجَا حِ وَالتَّجُوْحُ: شور کرنے والا سندر۔

سَنِيْلٌ نَاجِحٌ: بہت تیز بہاؤ کا سیلاب جو زمین کو

کھود دے۔

نَاجِحَةٌ الْمَاءُ وَ نَحِيْحَةٌ: پانی کی آواز۔

التَّجَا ح: کھاننے والے کی آواز۔

نَحَّحَاتُ الْمَاءِ: پانی کی بو پھاریں۔

التَّحِيْبَةُ: کھن جو دودھ کے برتن میں

کنا رو کر چپک جائے۔

إِمْرَأَةٌ تَحَا حَةٌ: وہ عورت جس کی اندام نمائی

سے جماع کے وقت آواز نکلے اور بقول بعض وہ

عورت جو جماع سے آسودہ نہ ہو۔

نَحْدَةٌ (ن) نَحْدًا: مد کرنا۔ غالب ہونا۔

نَحَدَ (ن) نَحُوْدًا الْأَمْرَ: واضح ہونا —

النَّهْدُ عَرَفًا: بدن سے پسینہ بہنا — الشئی مِنْ

الْأَرْضِ: لگانا۔

نَحْدُ (س) نَحْدًا الرَّجُلُ: کامیاب گھبراہٹ سے

پسیدہ آنا۔ صفت نَحْدٌ: ٹھکانا۔ پلید ہونا۔

نَحْدَ نَحْدًا الرَّجُلُ: ٹھکانا ہونا۔ صفت

مَنْحُوْدٌ وَنَحِيْدٌ۔

نَحْدُ (ک) نَحْدَةً وَ نَحَادَةً دَلِيْرٌ هُوَ دَوْرُوْرٌ

کُو مَاجِرٌ كُرِيْنٌ وَ دَالِيْرٌ كَاطِرٌ وَ دَالِيْرٌ هُوَ

— نَحُوْدًا) واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔ صفت نَاجِدٌ

وَ نَحْدٌ۔

نَحْدَةُ الْبَيْتِ: مکان کو آراستہ کرنا —

التَّجَادُ الْمَقْرُوْسُ: فرش ساز کا فرش کھانا اور سینا

— الذَّهْرُ فَلَانًا: حجره کار بنانا — الزُّجْلُ: دوڑنا۔

فَاجِدُهُ مُتَاجِدَةً: مدد کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ جنگ کے لیے لگانا۔

أَنْجَدُهُ: مدد کرنا۔ أَنْجَدَ الزُّجْلُ: ہیمنہ والا ہونا۔ نجد میں آنا یا نجد کی طرف سفر کرنا۔ اپنے اہل و عیال سے قریب ہونا — الْبِنَاءُ: عمارت کا بننا ہونا — الذَّخْوَةُ: قبول کرنا۔ أَنْجَدَتِ السَّخَاءُ: بادل سے صاف ہونا۔

تَنْجَدُ الشَّيْءُ: بلند ہونا۔

اسْتَنْجَدَ: دلیر ہونا — فَلَانًا وَبِهِ: مدد طلب کرنا — عَلَيْهِ: خوفزدہ ہونے کے بعد دلیری کرنا۔

نَجْدٌ: نم۔ نلک۔ نجد۔

التَّجْدُ: بلند زمین۔ جِ الْخَدُّ وَنَجْدٌ وَبِنَجَادٍ وَنَجُودٌ وَنَجَادٌ وَنَجْدَةٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ طَلَاغُ النَّجْدِ وَنَجْدَةٌ وَبِنَجَادٍ وَطَلَاغُ التَّجَادِ" وہ مشکل امور پر غالب آنے والا ہے اور اسی معنی میں ہے "طَلَاغُ النَّفَايَا" گھاٹیوں کو عبور کر جانے والا۔ التَّجْدُ: مکان کی آراستگی کا سامان۔ جِ بِنَجَادٍ وَنَجُودٌ: التَّجْدُ: باہر ہنسا۔ درختوں سے خالی جگہ۔ کرب و غم۔ پستانِ بلند راستہ۔

زُجْلٌ نَجْدٌ وَنَجْدٌ وَنَجْدٌ: دلیر مرد۔ دو مردوں کو عاجز کر دینے والے امور کا پورا کرنے والا۔ دعوت کو بہت جلدی قبول کرنے والا۔ جِ أَنْجَادٍ:

التَّجْدُ: ہیمنہ۔ گھر کا سامان۔ چھوٹا۔ پردہ وغیرہ۔ جِ أَنْجَادٍ:

التَّجْدَةُ: نم۔ اسمِ مرقہ۔ بہادری و دلیری۔ طاقت و سختی۔ کہا جاتا ہے "لَأَقْبَى فُلَانٌ تَجْدَةً" فلاں سختی میں پڑ گیا۔ مقاتلہ۔ گھبراہٹ۔ جِ تَجْدَاتٍ:

الْبِنَاءُ: پڑنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ طَوْلِيْلُ التَّجَادِ" وہ لمبے پڑنے والا ہے۔ کتایہ ہے طویل القامت ہونے سے۔

الْبِنَاءُ: فرش سازی کا پیشہ۔

التَّجْدُ: بہادر۔ ایسے امور کو انجام دینے والا

جو دو مردوں کو عاجز کر دیں۔ شیر۔ تمسکین۔ جِ تَجْدٌ وَنَجْدَاءُ:

التَّاجِدُ: فاتح۔ مؤنث تَاجِدَةٌ جِ نَوَاجِدُ:

التَّجَادُ: فرش ساز۔

نَجُودُ النَّيْتِ: مکان کو آرامتہ کرنے کیلئے دیواروں کے پردے۔

التَّجُودُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْأَنْثَنِ: لمبی گردن والا۔ طے میں آگے رہنے والا — مِنَ التَّسَاءِ: ظلمت عورت۔ شریف عورت۔ جِ تَجْدٌ:

التَّجَاوُدُ: شراب۔ شراب کا برتن۔ خون زعفران۔ جِ نَوَاجِدُ:

الْمِنْجَدُ: عورتوں کا ایک زبور جس کو گردن میں ڈالتی ہیں اور سینے کے نیچے تک ہوتا ہے۔ چھوٹا پہاڑ جِ مَنَاجِدُ:

الْمِنْجَدَةُ: اون وغیرہ دھننے کا ککڑی کا اوزار۔ جانوروں کو ہانکنے کیلئے چھوٹی سی چھری۔ جِ مَنَاجِدُ:

زُجْلٌ مَنَاجِدُ: بہت مدد کرنے والا مرد۔

الْمَنْجُودُ: مغم۔ مغموم۔ ہلاک ہونے والا۔ نَجْدَةٌ (ض) تَجْدٌ: دائروں سے کاٹنا۔ اصرار کرنا۔

نَجْدَةٌ: حجرہ کرنا۔ آزمانا۔ نَجْدَةٌ وَالتَّجَارِبُ: حجرہ کار بنانا — هُ التَّيْلَانِيَا: مصیبتوں کا لاحق ہونا۔

لِلتَّاجِدِ: فاتح۔ نَوَاجِدُ کا واحد بمعنی دائرہ۔ کہا جاتا ہے "عَضَّ عَلَيَّ تَاجِدُهُ" وہ بالغ ہو گیا۔ کمالِ عقل کو پہنچ گیا۔ اس لیے کہ نواہذ بلوغ و کمالِ عقل کے بعد نکلتی ہیں۔ "وَعَضَّكَ حَتَّى يَبْدُتَ نَوَاجِدُهُ" وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ "وَأَبْدَتِ الْحَزْبُ تَاجِدِيهَا" لڑائی تیز ہو گئی۔ وَعَضَّ الزُّجْلُ عَلَيَّ تَاجِدِيهِ" یعنی اس نے مہربانیا۔ الْمَنَاجِدُ: جمع جُلْدٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ۔ بمعنی چھوٹو۔

نَجْوَانُ (ن) تَجْوَانُ النَّيْمُ: دن کا گرم ہونا۔ الْمَاءُ: پانی کو گرم پتھر سے داغ کرنا — الزُّجْلُ: مار کر ہٹانا — الْعُشْبُ: ککڑی کو جمیل کر ہموار کرنا — الشَّيْءُ: ارادہ کرنا — الْإِبِلُ: اونٹ کو ہانکنا۔ نَجْوَانُ (س) تَجْوَانُ: سخت پیاسا ہونا۔

أَنْجَرٌ فَلَانًا: دودھ، گھی، آنے سے بنا ہوا کھانا پیش کرنا۔

النَّجْرُ: نم۔ اصل۔ حسب۔ رنگ۔ گری۔ النَّجْرُ: سخت پیاس جو اونٹ وغیرہ کو لاحق ہوتی ہے اور بھتی نہیں۔

النَّاجِرُ: گری کے مہینوں میں سے ہر ایک مہینہ۔

النَّبَجَارُ وَالتَّجَارُ: اصل۔ حسب۔ رنگ۔ النَّبَجَاةُ: بڑھی کاپڑ۔

النَّبَجَاةُ: ککڑی کا جمیل۔ زندہ کرتے وقت جو گرے۔

التَّجَارُ: بڑھی۔

النَّجِيرَةُ: ککڑی کی ہمت۔ دودھ، گھی، آنے سے بنا ہوا کھانا۔ گرم پتھر سے داغ کیا ہوا پانی۔ بدلہ۔ کہا جاتا ہے "لَأَنْجِرَنَّ نَجِيرَتَكَ" میں تم کو بدلہ دوں گا جس کے تم مستحق ہو۔

النَّجْرَانُ: ککڑی کی چول جس پر دروازہ کھوسا ہے۔ پیاسا۔ اور سخن اور حوران کے دو شہروں کا نام تَجْرَانُ ہے۔

إِبِلٌ تَجْرَةٌ وَنَجْرِيٌّ وَنَجْرَانِيٌّ: پیاسے اونٹ۔

الْأَنْجَرُ وَالْأَنْجَرَةُ: لنگر۔ جِ الْتَاجِرُ (ذخيل) الْمَنْجَرُ: مقصد جو راستے سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ الْمَنْجَرَةُ: پانی داغ کرنے کا گرم پتھر۔

الْمَنْجَرُ: اونٹوں کو بہت تیز ہانکنے والا۔ زندہ۔

الْمَنْجُورُ: مغم۔ کونکوں سے پانی نکالنے کی چرخی۔

النَّجْرُ: ایک قسم کا آلہ جس سے زمین کھودی جاتی ہے۔

تَجْرَانُ (ن) تَجْرَانُ الْحَاجَةِ: حاجت پوری کرنا — بِالْوَعْدِ: وعدہ میں جلدی کرنا — الْوَعْدُ: حاضر ہونا۔ جلدی ہونا۔ پورا ہونا۔

تَجْرَانُ (س) تَجْرَانُ الشَّيْءِ: ختم ہونا۔ ہونا۔

النَّكْلَامُ: کلام کا منقطع ہونا۔

تَجْرَانُ الْحَاجَةِ: حاجت پوری کرنا۔ أَنْجَرُ الْحَاجَةِ: حاجت پوری کرنا۔

الْوَعْدُ: وعدہ وفاقہ۔ اور اسی سے مثل ہے
"أَنْجَزَ حُرْمًا وَعَدًا" شریف آدمی جو وعدہ کرتا
ہے پورا کرتا ہے اور کبھی وعدہ کو پورا کرنے کیلئے
پورا جاتا ہے۔ عَلَى الْقَيْلِ: فوراً مار ڈالنا۔

نَاجِزٌ: مقابلہ پر لگنا۔ مقاتلہ کرنا۔

تَنْجِزُ الشَّرَابِ: پینے میں اصرار کرنا۔ (و
استنجز) الحاجة او الوعد: حاجت یا وعدہ
پورا کرنے کو کہنا۔

تَنَاجُزًا: باہم مقابلہ کرنا۔ باہم مقابلہ کرنا۔

التنجز والتناجز: حصول۔ وفاسے عمد۔ اور
کہا جاتا ہے "أَنْتَ عَلَيَّ نَجِزٌ حَاجِبٌ" تم اپنی
حاجت کی تکمیل کے قریب ہو۔

التنجيز والتناجز: حاضر۔ موجود۔ نقد۔ کہا
جاتا ہے "بِعْتَهُ نَاجِزًا يَنَاجِزُ" میں نے اس کو
دست بہت سے بچا اور میں نے موجود کی موجود سے
بچ کی ولا یباع غائب بنا چاہی غائب کی موجود
سے بچ نہ کی جائے "وَعَدْتُ نَاجِزًا وَنَجِيزًا" وعدہ
جو پورا کر دیا جائے۔

نَجَسٌ (س) نَجَسًا وَنَجَسٌ (ک)
نَجَسَةً: گند ہونا۔ ناپاک ہونا۔ صفت نَجَسٌ
وِ يَجَسُ وَنَجَسٌ وَنَجَسٌ وَنَجَسٌ ج
أَنْجَسَ۔

نَجَسَةٌ وَأَنْجَسَهُ: ناپاک کرنا۔ نَجَسَ
الصَّبِيَّ وَلَهُ: نظریہ وغیرہ سے بچنے کے لیے
تعویذ وغیرہ لگانا۔

نَجَسَ: ناپاک ہونا۔ الثوبُ: کندگی سے
آلودہ ہونا۔ نجاست سے لگانا۔

الأنجاس: نظریہ وغیرہ سے بچانے کے لیے
تعویذ لگنا وغیرہ۔

ذَا نَجَسٌ وَنَاجِسٌ وَنَجِسٌ لِعَلَّاجٍ
مرض۔

النجس: تعویذ کرنے والے۔

نَجَسَ (ن) نَجَسًا الشَّيْءُ: کھو کرید کرنا۔
لگانا۔ بکیرنے کے بعد جمع کرنا۔ الصبيد:
شکار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے بھڑکانا

— النَّازُ: آگ روشن کرنا۔ جلانا۔
الحدوث: بات پھیلانا۔ فی البيع: سیدھی
تعریف کر کے بائع کی موافقت کرنا۔ اور يقول

بعض الخیر ارادہ خریداری دوسروں کو پھیلانے کے
لیے قیمت بڑھانا یا خریدار کو ایک چیز سے دوسری
چیز کی طرف رغبت دلانا۔ اسم النجس (و)
نَجَسًا وَنَجَسًا: تیز چلنا۔

تَنَاجَسَ الْقَوْمُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ: دوسرے
سے بڑھ کر بولی دینا۔

اسْتَنْجَسَهُ الشَّيْءُ: نکلنا۔ الصبيد: شکار
کو بھڑکانا۔

النجاس: تمہ جس کو دودھ چھڑوں کے درمیان
رکھ کر سی دیتے ہیں۔

التناجس والتنجاس والتنجيس: شکاری
التناجس والتنجاس والتنجيس: شکار کو

شکاری کی طرف بھگانے والا۔ المنجاس: بڑا
عیب جو۔

التنجاسی والنجاسی والتنجاسی
والنجاسی: شاہ جس کا لقب۔

رَجُلٌ نَجُوسٌ وَمِنْجَسٌ: شکار کو بھڑکانے
والا۔ المنجس: بڑا نکتہ چیں و عیب جو۔

قَوْلٌ مَنجُوسٌ: گھڑی ہوئی جموں بات۔

نَجَعٌ (ف) نَجُوعًا وَنَجَعٌ الْقَطْعَامُ فِي
الْإِنْسَانِ: فائدہ مند ہونا۔ نفع پہنچانا۔ کہا جاتا ہے

"هَذَا قَطْعَامٌ يَنْجَعُ عَنَّهُ وَبِهِ" یہ ایسا کھانا ہے جو
فائدہ مند ہے اور اسی سے موٹاپا حاصل ہوتا ہے

— لِذِيهِ الذَّوَانِ أَوْ الْقَطْعَامِ أَوْ الْكَلَامِ: اثر کرنا۔
نَجَعُ الْبَلَدِ: شہر میں آنا۔ الْقَوْمُ الْكَلَا:

چراگاہ کی تلاش میں جانا۔ الأبل النجوع و
بالنجوع: آٹلا ہوا پانی پلانا۔ نَجَعُ الصَّبِيِّ لَبِنِ

الشَّاءِ أَوْ لَبِنِ الشَّاءِ: خوراک دیا جانا۔ پرورش
کیا جانا۔

أَنْجَعُ الْقَطْعَامُ وَغَيْرُهُ: کھانے وغیرہ کا مفید ہونا
— الْوَجُلُ: کامیاب ہونا۔ الزامی

القبضيل: چرواہے کا اونٹ کے بچے کو دودھ
پلانا۔

تَنْجَعٌ وَأَنْجَعٌ: استنجع الْقَوْمُ الْكَلَا:
چراگاہ کی تلاش میں جانا۔ تَنْجَعٌ وَأَنْجَعٌ وَ

اسْتَنْجَعُ فَلَانًا: بخشش طلب کرنے کیلئے کسی
کے پاس آنا۔ تَنْجَعُ بِالْذَّمِّ: خون سے تھڑکا۔
اسْتَنْجَعُ بِهِو عَنهُ: بھم ہونا۔ اور موٹا ہونا۔

أَلْتَجِعُ: پانوں کا ہوا یا شہر۔ النجوع: کام
النجعة: چراگاہ کی تلاش۔ یہ نَجُوعٌ كَالْأَسْمِ

— ہے۔ کہا جاتا ہے "نَجُوعًا لِلشَّيْءِ" لوگ
چراگاہ کی تلاش میں لگے و "فَلَانٌ نَجَعِيٌّ"

فلان میری جائے امید ہے۔ نَجُوعٌ:
التناجع: چراگاہ کی تلاش کرنے والا۔ ج

نَاجِعَةٌ وَنَاجِعٌ: ماءٌ نَاجِعٌ: خوشگوار پانی۔
التناجع: شجاع کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے

"شَجَاعٌ لِنَاجِعٍ" بہت دلیر۔
التنجوع: آٹلا ہوا پانی جو اونٹ کو پلایا جاتا

— نَجُوعٌ الصَّبِيِّ: دودھ۔ ماءٌ نَجُوعٌ:
خوشگوار صاف پانی۔

التنجيع: فائدہ مند — مِنَ الْقَطْعَامِ أَوْ
الشَّرَابِ: نافع بن کھانا یا پانی — مِنَ الدَّمِ:

سایہ یا نکل خون۔ ماءٌ تَنْجِيعٌ: خوشگوار پانی۔
المنجيع والمنجوع والمنجوع: وہ مقام

جہاں گھاس کے لیے لوگ جائیں۔
نَجْفٌ (ن) نَجْفًا تَنْجِيفٌ: تراشا۔ صفت

مفعول تَنْجِيفٌ وَ مَنجُوفٌ — الشَّجَرَةُ:
درخت کو جڑ سے کاٹنا — الشَّاءُ: بکری کا سارا

دودھ دوہ لیتا۔
نَجْفٌ فَلَانٌ نَجْفَةٌ مِنَ اللَّبَنِ: کسی کے لیے

تھوڑا سا دودھ علیمہ کرنا۔ تَنْجَفَتِ الزَّيْبُ
الْكَيْبِ أَوْ الرَّمْلِ: ہوا کا ریت کے تودہ یا ریت

کو اڑانا۔
إِنْتَجَفَ وَإِسْتَجَفَ الشَّيْءُ: نکلنا۔ الزَّيْبُ

الشَّحَابُ: ہوا کا بالوں کو پانی سے خالی کرنا۔
الشَّاءُ: بکری کا سارا دودھ دوہ لیتا۔

التنجيف: نجاف و التنجيف: ٹیلہ۔ وادی
میں وہ جگہ جہاں پانی نہ چرے۔

النجاف: دروازہ کے اوپر کا پتھر۔ ينجاف
الغار: غار کے اوپر آگے کو لگانا۔

التنجيف: چوڑے پھل والا شہر۔ نجف:
المنجف: زنبیل۔ نوکری۔

المنجوف: سف۔ چوڑے پھل والا شہر۔
اندر سے چوڑا بننے کا پتھر۔

التنجفة: تھوڑی چیز۔
نَجَلٌ (ن) نَجَلًا الشَّيْءُ: ظاہر کرنا۔

الأرض: زمین جو تہا۔ نَجَلَةُ أَبْوَهُ وَ نَجَلُ بِهِ: پیدا کرنا۔ نَجَلَتِ الْأَرْضُ: زمین کا سرسبز ہونا۔ نَجَلُ فَلَانًا: ٹھوکر مارنا یہاں تک کہ لڑھک جائے۔

النَّاسُ: شرارت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَنْ نَجَلَ النَّاسَ نَجَلَهُ“ جو لوگوں کو عیب لگاتا ہے لوگ اسے عیب لگاتے ہیں۔ جو لوگوں کو گالی دیتا ہے لوگ اسے گالی دیتے ہیں وَ نَجَلَ الْجِلْدَ عَنِ الصَّدْبُوحِ: دونوں پھٹی ٹانگوں کے درمیان کھال کاٹ کر سر کی طرف سے کھینچ لینا۔ کھال کو مَنجُولُ کہتے ہیں۔

نَجَلَ (ض) نَجَلًا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: پھینکانا۔ بِالرُّوْحِ: نیزہ مارنا — الصَّيْبُ اللُّوْحُ: بچہ کا تختی کو مٹانا — الزُّجْلُ: حیر چلانا۔

نَجَلَ (س) نَجَلًا الزُّجْلُ: بڑی اور خوبصورت آنکھوں والا ہونا۔ صَفَتِ أَنْجَلَ جِ نَجُلٌ وَ يَجَالُ: آنکھ کی صفت۔ نَجَلَاءُ جِ نَجُلٍ۔

أَنْجَلَ الدَّابَّةَ: نَجَلًا (ایک قسم کی ترش گھاس) چرنے کے لئے چھوڑنا۔

تَنَجَّلَ الْقَوْمُ: جھگڑا کرنا۔ نسل پیدا کرنا۔

إِنْتَجَلَ الْأَمْرُ: ظاہر ہونا اور گزرتا۔

إِسْتَجَلَ الْمَكَانُ: کسی جگہ سے پانی کا بکھرتا رہنا — فَلَانٌ التَّرُّ (زمین سے) سونا نکالنا۔

التَّجَلُّلُ: مہ اولاد۔ نسل۔ اور کہا جاتا ہے ”هُوَ كَرِيمٌ النَّجَلُ“ وہ کریم الاصل و شریف الطبع ہے والد۔ جِ أَنْجَالُ۔ التَّجَلُّلُ: عمل۔ بڑی جماعت۔ سڑک۔ بسنے والا پانی۔ زمین سے رسنے والا پانی جِ نَجَالٌ وَأَنْجَالُ۔

التَّجَالُّلُ: نا۔ شریف النسل (انسان یا حیوان) مَوْنَتٌ نَاجِلَةٌ: جِ نَاجِلَاتٌ وَ نَوَاجِلُ۔ التَّوَجُّلُ: تجلیل (ایک قسم کی ترش گھاس) کے چرنے والے اونٹ۔

الْأَنْجَلُ: کشادہ لہا چھوڑنا۔ جِ نَجُلٌ وَ يَجَالُ مَوْنَتٌ نَجَلَاءُ جِ نَجُلٍ: کہا جاتا ہے ”طَفْعَتُهُ طَفْعَةُ نَجَلَاءٍ“ اس نے اسے کشادہ زخم کرنے والا نیزہ مارا۔

التَّجَلُّلُ: ایک قسم کی ترش گھاس۔ اسی گھاس کی ٹوٹی ہوئی پتلیاں۔ جِ نَجَلُ۔

الْمِنْجَلُ: دراتی۔ جِ مَنَاجِلُ۔ الْمِنْجَلُ: گنجان کھین۔ بہت اولاد والا۔ ماہر اُونٹ ہانکنے والا۔ اور کہا جاتا ہے ”بِسَانٍ مَنجَلٍ“ چوڑا زخم کرنے والا ہمالا۔

نَجَمٌ (ن) نَجُومًا الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے ”نَجَمَتِ الْكُوكِبُ“ ستارے طلوع ہوئے۔ وَ نَجَمَ النَّبْتُ: سبزی اگی۔ وَ نَجَمَ الْمِسُّ أَوْ الْقُرْنُ: دانت یا سینک نکل آئے۔ وَ ”نَجَمَ لِي نَيْبِي فَلَانٌ شَاعِرًا وَ فَارِسًا“: بنو قلاں میں بے مثال شاعر یا شہسوار ظاہر ہوا — كَذَا عَنْ كَذَا: فلاں چیز سے ایسا نتیجہ برآمد ہوا — فَلَانٌ الذِّئْبُ: شتوں میں ادا کرنا — السَّهْمُ أَوْ الرُّوْحُ: تیر یا نیزے کا پار ہو جانا۔

نَجَمَ: احوالِ عالم معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو دیکھنا — الذِّئْبُ: قرض کو شتوں میں ادا کرنا — عَلَيْهِ الدِّينَةُ: بیت کی قسط مقرر کرنا۔

أَنْجَمَ الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔ أَنْجَمَتِ السَّمَاءُ: آسمان پر ستاروں کا کھل جانا۔ أَنْجَمَ الشِّتَاءُ أَوْ الْبَيْتُ: جائزے اور سرودی کا ختم ہونا — الزُّجْلُ عَنِ الْأَمْرِ: چھوڑنا۔ أَنْجَمَتِ الْحِزْبُ بِلَدَانِي كَاتِبًا ختم ہونا۔

الْتَجَمَ الْبَيْتُ وَ الشِّتَاءُ: جائزے یا سرودی کا گزر جانا۔ ختم ہونا۔

تَنَجَّمَ: احوالِ عالم معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو دیکھنا۔

التَّجْمُ: جِ نَجُومٌ أَوْ أَنْجَمٌ وَ أَنْجَامٌ وَ نَجْمٌ۔ ستارہ۔ اور شیا پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ ادا ہونے پر قرض کا مقررہ وقت۔ وقت مقررہ پر ادا کی ہوئی قسط۔ کہا جاتا ہے ”جَعَلْتُ مَالِي عَلَيْهِ نَجُومًا مَنجَمَةً يُؤَدِّي كُلَّ نَجْمٍ مِنْهَا فِي وَقْتٍ كَذَا“ میں نے اس پر قسط مقرر کر دی کہ ہر قسط فلاں وقت میں ادا کرے۔

التَّجْمُ: تیل۔ بقرہ تہ کے نباتات۔ اصل کہا جاتا ہے ”هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَجْمَ لَهُ“ اس بات کے لئے کوئی اصل نہیں۔

التَّجْمَعَةُ: ستارہ۔ اور یہ نجم سے خاص ہے

كَلِمَةٌ (— وَ النَّجْمَةُ وَ دَوَّاهُ اس کے نام۔ النَّجْمَةُ: ایک تیل ہے جو زمین پر پھیلتی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ”تَيْلٌ“ اور ”نَجْمَةٌ“ اور ”عَجْكَوْشُ“ ایک ہی چیز کے نام ہیں ذُو النَّجْمَةِ: گدھا۔

التَّجْنِيمُ مِنَ التَّنْبَاتِ: تازہ گھاس۔ التَّخَامُ وَ الْمُتَجِّمُ وَ الْمُتَجِّمَةُ: نجومی۔ الْمُنْجَمُ: ٹپکنے کی جگہ۔ معدن۔ واضح راستہ۔

الْمِنْجَمُ: ترازو کی لوہے کی ڈنڈی۔ نَجَجَ نَجْمَةً فِي رَأْيِهِ: تخیر ہونا۔ منظر ہونا — عَيْشَةٌ: دھنسی ہوئی آنکھ ہونا — الْأَيْلُ: اونٹ کو چراگاہ سے روکنا۔ پانی سے واپس کرنا — فَلَانًا عَيْشَةً: منع کرنا — الشَّيْءُ حُرْكَتًا: اَلْأَمْرُ: بختہ ارادہ نہ کرنا۔

تَنَجَّحَ الزُّجْلُ: تخیر ہونا — الشَّيْءُ: بلنا۔ نَجَحَ (ف) نَجْحًا وَ انجَحَ وَ تَنَجَّحَ الزُّجْلُ: بڑی طرح سے ہٹانا۔ بڑی صورت سے پیش آنا۔ نَجَحَ عَلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا — التَّبَلُّدُ: شہر میں داخل ہونا اور ناپسند کرنا۔

نَجَا يَنْجُو نَجَاءً وَ نَجَاءً وَ نَجُوءًا وَ نَجَايَةً مِنْ كَذَا: بچتا ہونا۔ رہائی پانا۔

نَجَا يَنْجُو نَجَاءً: تیر چل کر آگے بڑھنا — نَجُوءًا (الشَّجَرَةُ): درخت کاٹنا — الصَّيْبُ: بچنے کا پانسٹھانہ کرنا — فَلَانًا: رہائی دینا۔ چھڑانا

— الدَّوَاءُ: دوا دینا — النُّجُوءُ مِنَ التَّظُنِّ: پانسٹھانہ لگانا (— نَجُوءًا وَ نَجَا) عَنِ الدِّينِيَّةِ: کھال اتارنا — نَجُوءًا وَ نَجُوءِي وَ نَاجِي مَنَاجِيَةً وَ نَجَاءً (أ) الزُّجْلُ: سرگوشی کرنا۔ اسم النَجُوءِي۔

نَجِي تَنْجِيَةً الزُّجْلُ مِنْ كَذَا: رہائی دلانا۔ بلند زمین میں چھوڑنا۔

أَنْجَى الزُّجْلُ: رہائی دلانا — الزُّجْلُ: پانسٹھانہ کرنا — فَلَانًا غَضَبًا: کسی کیلئے شنی کاٹنا

— الْجِلْدُ: کھال اتارنا — التَّخْلَةُ: پکی کھجوروں والا ہونا — الزُّجْلُ: بیسند لگانا اور کہا جاتا ہے ”طَرِبَ دَوَاءَ لَمَّا أَنْجَاهُ“ اس نے دوا پائی تاکہ وہ نہیں ہوا۔

نَحْشَى - بلند زمین ڈھونڈنا۔
 تَنَاجَى تَنَاجِيًا الْقَوْمَ: سرگوشی کرنا۔
 اِنْتَجَى الْقَوْمَ: سرگوشی کرنا۔ الزَّجْلُ: سرگوشی کے لیے خاص کرنا۔ رازدار بنانا۔
 اسْتَنْجَى مِنْ كَذَا: رہائی پانا۔ الشَّجْوَةُ: درخت کو جڑ سے کاٹنا۔ الشَّيْءُ مِنْ فُلَانٍ: چھڑوانا۔ الزَّجْلُ: پانچھانہ کرنے کے بعد دھونا یا ڈھیلے سے پونچھنا۔ الْقَمَرُ: چھل چٹنا۔ الْقَوْمَ: ترکجوڑیں حاصل کرنا یا کھانا۔ الزَّجْلُ: تیز چلنا۔ ٹھکت کھانا۔
 التَّاجِي - فَا - مَوْتٌ - نَاجِيَةٌ ج نَوَاجٍ وَ نَاجِيَاتٌ - التَّاجِيَةُ: تیز رفتار اونٹنی۔ کہا جاتا ہے "قَطَعَ الْمَكَانَ بِنَوَاجٍ سَرِيْعَةٍ اِلَى مَعَالٍ" اس نے جگہ کو تیز رفتار اونٹنیوں سے طے کیا۔
 التَّجَالَى: لکڑی۔ ہودج کی لکڑی۔ کھال۔
 التَّجْوُ وَ التَّجَا وَ التَّجَاةُ وَ التَّجَاءُ - رہائی۔ کہا جاتا ہے "التَّجَاءُ لَكَ التَّجَاءُ لَكَ وَ التَّجَاكُ وَ التَّجَاكُ" یعنی جلدی کر۔ جلدی کر۔ اور یہ باب اغراء سے ہے اور فعل مجزوف سے منصوب ہے اور اس کی تقدیر "الزَّوْمُ التَّجَاءُ" ہے اور کاف حرف خطاب ہے۔
 التَّجْوُ - مہ - پانچھانہ یا گوز۔ دو آدمیوں کے درمیان بھید۔ ج نَجَاءً - بادل جو پانی برسا چکا ہو ج نَجْوً۔
 التَّجْوَى - اسم ہے مناجات کا۔ بھید۔ سرگوشی کرنے والے اور یہ وصف بالصدر ہے اس میں واحد جمع برابر ہیں۔ کہا جاتا ہے "هَمْ تَجْوَى التَّجْوَى": خراج۔ محصول۔ ج نَجَاوَى - التَّجَاةُ - مہ - رہائی۔ بلند زمین۔ حسد۔ لالچ۔ سانپ کی چھتری۔ شئی۔ ج نَجَاةُ - التَّجْوَةُ - اسم مرۃ۔ بلند زمین۔ ج نَجَاءُ - کہا جاتا ہے "اِنَّهُ مِنَ الْاَهْمَرِ بِتَجْوَةٍ" وہ اس کام سے پاک صاف ہے۔
 التَّجَاوَةُ - زمین کی گھمائش۔
 التَّجْوَى - بھید۔ جس سے رازداری کی بات کی جائے۔ بت کرنے والا۔ حدی پڑھنے والے کی آواز۔ بلند آواز سے جانور کو ہانکنے والا۔ تیز۔ کہا

جاتا ہے "بَعِيْرٌ نَجِيٌّ" تیز رفتار اونٹ۔ اور کہا جاتا ہے "بَاتَتْ فِي صَدْرِهِ نَجِيَّةٌ فَذَاسْتَهْرَبَتْ" اس کے سینے میں تم رہا جس نے اسے بیدار رکھا۔
 المَنْجَى - نجات کی جگہ۔ بلند زمین۔ ج مَنَاجٍ -
 الْمَنْجَاةُ باعث نجات۔ ج مَنَاجٍ - کہا جاتا ہے "الصَّدَقُ مَنَاجَاةٌ" سچائی باعث نجات ہے۔
 نَحْ (ض) نَحِيْحًا الزَّجْلُ: سینہ میں آواز گڑبگڑانا۔
 نَحْ (ن) نَحَا الْجَمَلُ: تیز چلنے پر اُکسانا۔
 التَّخَاخَةُ - سخاوت۔ بخل (ضد) التَّخِيْحُ - مہ بخیل۔ کہا جاتا ہے فُلَانٌ شَخِيْحٌ تَخِيْحٌ لِمَالٍ حَرِيْسٍ وَ بَخِيْلٌ -
 نَحَبٌ (ف ض) نَحْبًا وَ نَحِيْبًا الزَّجْلُ: رونے میں آواز بلند کرنا۔ نَحْبًا: بکڈنا۔ شرط لگانا۔
 نَحَبٌ (ض) نَحْبًا وَ نَحَابًا التَّبَوِيْعُ: کھانسانا۔
 نَحَبٌ (ن) نَحْبًا وَ نَحَبٌ الزَّجْلُ: نذر ماننا۔ نَحَبٌ وَ نَحَبٌ الْقَوْمُ فِي سَبْرِ هِمٍّ: جلدی سے چلنا۔ نَحَبٌ عَلَيَّ الشَّيْءُ: مشغول ہونا۔ ٹوٹ پڑنا۔
 نَاحِيَةٌ مَنَاحِيَةٌ - مفاخرت کرنا۔ هُوَ عَلَيَّ كَذَا: شرط لگانا۔ هُوَ اِلَى فُلَانٍ: فعل کے لیے جانا۔
 تَنَاحَبَ الْقَوْمَ: جنگ وغیرہ کیلئے وقت معین کرنا۔
 اِنْتَحَبَ - بہت رونا۔ زور سے لے لے سانس لینا۔ چوٹ کر رونا۔
 التَّخَبُ - مہ - سخت گریہ۔ کھانسی۔ سختی۔ موت۔ مدت۔ وقت۔ بڑا خطرہ۔ بہت۔ نفس۔ نیند۔ موٹاپا۔ بڑے جسم کا اونٹ۔ حاجت۔ دلیل۔ جوا۔ تیز چال۔ یا آہستہ چال۔ نذر۔ کہا جاتا ہے "قَطَعِي فُلَانٌ نَحْبًا" فلاں نے اپنی نذر پوری کر دی۔ یعنی مر گیا کیونکہ موت اس کے ذمہ نذر تھی۔
 التَّخِيْبَةُ - ترس۔
 الْمُنْتَحَبُ - فَا - سَبْرٌ مَنِيْحٌ: تیز چال۔
 نَحَتْ (ض ن) وَ نَحَتْ (س) نَحْتًا الْغُوْدُ:

لکڑی چھیلنا۔ الْحَجْوُ: پتھر کو ہموار کرنا۔
 الْغَشْبَةُ: لکڑی چھیل کر ہموار کرنا۔ هُوَ: پچھاڑنا۔ السَّفَرُ التَّبَوِيْعُ: ڈیلا کرنا۔
 الْجَمَلُ: پہاڑ کھودنا۔ الْكَلِمَةُ: دو یا زائد کلمات سے ایک کلمہ بنانا جیسے صَهْلٌ - صَهْلٌ وَ صَلَقٌ ع نَسْمَلَةٌ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - ع جَوْ قَلَّةٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - فَذَلِكَ فَذَلِكْ كَذَا وَ كَذَا ع نَحْتَةٌ بِالْقَصَا: لاشی مارنا۔ هُوَ يَلْسَانِيَه: نیت کرنا۔ ملامت کرنا۔ گال دینا۔ عِزْوَةٌ: طعن کرنا۔ بے آبروئی کرنا۔ اَللْتَهُ وَ لِي اَلْتَلِيَه: مذمت کرنا۔ حسب میں طعن کرنا اور کہا جاتا ہے "نَحَيْتُ فُلَانٌ عَلَيَّ الْكُرْمَ" یعنی فلاں فرض فیاض بیدار کیا گیا ہے۔
 نَحَتْ (ف) نَحِيْتًا - بچپش ہونا۔
 اِنْتَحَتْ مِنَ الْغَشْبَةِ مَا يَجْعَلُهُ فِي النَّارِ: آگ میں دانے کیلئے چھپشیاں کاٹنا وَ اِنْتَحَتْ الْغَشْبَةُ: لکڑی کا چھپشیاں ہونا۔
 التَّخَتُّ مہ - (- وَ التَّخَاتُ وَ التَّخِيْتَةُ) طبعیت۔ کہا جاتا ہے "هَؤُورٌ كَرِيْمٌ التَّخِيْتَةُ" وہ کریم الطبع ہے۔ التَّخِيْتَةُ: بچپش۔
 التَّخَاتَةُ - تراشہ۔ چھیلنا۔ وہ ریزے جو کاٹنے سے گریں۔
 التَّخَاتُ - سبک تراش۔ بہت چھیلنے والا۔
 التَّخِيْتُ - مہ - چھیلنا ہوا۔ گریہ و زاری۔ بچپش۔ ڈیلا اونٹ۔ روی چیز۔ کھنٹی قوم میں اجنبی۔ مِنَ الْخَوَافِرِ: کنارے گھسا ہوا کھر۔
 الْمِنْخَتُ ج مَنَاجِيْتُ وَ الْمِنْخَاتُ ج مَنَاجِيْتُ لَكْرِى تَرَاشُهُ كَالدِّ - بولہ۔ کہا جاتا ہے "هَؤُورٌ مَنَخَتٌ صِدْقِي" وہ خالص اصل سے ہے "وَهُمْ كِبْرًا الْمَنَابِتُ وَ الْمَنَاحِيْتُ" وہ لوگ فیاض و اصل خاندان سے ہیں۔
 نَحَزَ (ف) نَحَزًا وَ تَنَحَّازًا - التَّبِيْئَةُ: سینہ پر مارنا۔ ذبح کرنا۔ فُلَانًا: مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَحَزَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ" میرا گھر اس کے گھر کے مقابل ہے و "نَحَزَ الْاُمُوْرُ عَلَيْنَا" یعنی اس نے معاملات کو مضبوط طریقے سے کیا۔ الصَّلَاةُ: اول وقت میں نماز پڑھنا۔ الْمُصَلِّيُّ لِي

الصَّلَاةُ: سِنَّةٌ كَالْحَمَلِ وَنَحْرًا.

نَحْرُهُ مُنَاخِرَةٌ. جَحْرًا كَرَبًا.

تَنَاحَرَ الْقَوْمَ عَلَيَّ كَذَا: جَحْرًا كَرَبًا
تَنَاحَرَتِ الْمَدَارِينُ: اِكْتِسَابُ دَرَسٍ مِنْ مَقَابِلِ
هُنَا — الْقَوْمَ عَنِ الْقُرْبِيِّ: رَاسْتَهُ سَهْلًا
كَرَبًا. هَتْ جَانًا — عَلَيَّ الْقُرْبِيِّ وَغَيْرِهِ: يَهْتَدِي
دَرَبَهُ آتَا.

إِنْتَحَرَ الرَّجُلُ: خَرَجَ كَشِي كَرَبًا — الْقَوْمَ عَلَيَّ
الْأَمْرَ: جَحْرًا كَرَبًا. إِنْتَحَرَ السَّيْحَابُ: هَتَّ بِرَأْسِ
لَيْ كَرَبًا — هَبَّ بِالْعَصَا: بَارَبًا.

النَّحْرُ: مِمَّ — سِنَّةٌ كَالْبَالِي حَصَّةً — نَحْرٌ نَحْوُ حَوْزٍ —
كَمَا جَاءَتْ فِي "فَعَدَّ لِي نَحْرًا فَلَانِي" يَعْنِي أَسْنَى
فَلَانٍ كَمَا تَقَابَلَهُ كَمَا — "نَحْرُ النَّهَارِ أَوْ الشُّهُورِ" دُونَ
يَا مَعْنَى كَابِتْرَاكِي حَصَّةً — يَوْمَ النَّحْرِ: يَوْمَ ذِي الْحِجَّةِ كَمَا
وَسْوَالِ دُونَ.

النَّحْرُ: حَازِقٌ — يَاهِرٌ — سَجْدَةٌ دَارٌ — وَتَابِيَةٌ —
النَّاحِرُ: فَالٌ — النَّاحِرَانِ: سِنَّةٌ كِي دُونَ رُكُوعٍ كَمَا
تَامَ.

النَّاحِرَةُ: النَّاحِرُ كَامُؤْتَفٍ — سِنَّةٌ كَالْبَالِي دُونَ
آخِرِي دُونَ يَأْخِرِي رَاثًا — نَحْرٌ نَوَاحِرٌ وَ
نَاحِرَاتٌ — النَّاحِرَاتَانِ: سِنَّةٌ كِي دُونَ رُكُوعٍ كَامُؤْتَفٍ —
النَّحْوَرُ: ذَنَبٌ كَرَبَةً دُونَ.

النَّحْوَرِيُّ: حَازِقٌ — سَجْدَةٌ دَارٌ — عَقْدَةٌ — نَحْرٌ
نَحْوَرِيٌّ — ذَنَبٌ كَمَا هُوَ — نَحْرٌ نَحْوَرِيٌّ وَنَحْوَرَاءُ وَ
نَحْوَرِيٌّ —

النَّحْوَرَةُ: نَحْوَرٌ كَامُؤْتَفٍ — طَبِيعَةٌ — سِنَّةٌ — مِمَّنْ
الشُّهُورِ: مَعْنَى كَالْبَالِي دُونَ يَأْخِرِي دُونَ يَأْخِرِي
رَاثًا — نَحْرٌ نَحْوَرِيٌّ —
النَّحْوَرُ: حَقْلٌ مِمَّنْ ذَنَبٌ كَرَبَةً كِي جَدُّ — مَقَامٌ
ذَنَبٌ —

النَّحْوَرُ: كَشَاوَهُ رَاسْتَهُ —
النَّحْوَرُ: كَرِيمٌ — فَيَاضٌ — بِمَثَلِ ذَنَبٍ كَرَبَةً
دُونَ — مِمَّنْ نَوَازٍ — كَمَا جَاءَتْ فِي "إِنَّهُ لِيَمْنَحَارُ
بِوَيْكُنْهَ" وَهُوَ مَوْلَى أَوْثُونَ كُوَيْبَتِ ذَنَبٍ كَرَبَةً
دُونَ — يَعْنِي بِرَأْسِ مِمَّنْ نَوَازٍ —

النَّحْوَرُ: سِنَّةٌ كَالْبَالِي حَصَّةً — نَحْرٌ نَحْوَرِيٌّ —
نَحْوَرَةٌ (ف) نَحْوَرًا: دَفْعٌ كَرَبًا — هَتَّ جَوَابًا —

بَادِنٌ مِمَّنْ كَرَبًا — بِرَجْلِهِ: نُحْرًا كَرَبًا — فِينِ
صَدْرِهِ:

نَحْوَرٌ وَنَحْوَرٌ (ك) وَنَحْوَرٌ (س) نَحْوَرٌ أَوْ نَحْوَرٌ
النَّحْوَرِيُّ: بِمِثْلِ مِثْلِهِ كِي بِيَارِي دُونَ هُوَ — صِفَتُهُ نَحْوَرِيٌّ
وَ نَحْوَرِيٌّ وَنَحْوَرِيٌّ وَنَحْوَرِيٌّ —

نَحْوَرٌ (س) نَحْوَرًا: الرَّجُلُ: كَمَا جَاءَتْ فِي
أَنَحْرَ الْقَوْمِ: بِمِثْلِ مِثْلِهِ كِي بِيَارِي دُونَ
أَوْثُونَ كَامَالِكٌ هُوَ —

النَّحَازُ: أَوْثُونَ كِي اِكْتِسَابُ بِيَارِي دُونَ بِمِثْلِ مِثْلِهِ
مِمَّنْ هُوَ يَهْتَدِي بِسَبَبِ مِمَّنْ هُوَ يَهْتَدِي بِسَبَبِ
— وَالنَّحَازُ: مِمَّنْ — كَمَا جَاءَتْ فِي "هُوَ كَرِيمٌ
النَّحَازُ" وَهُوَ كَرِيمٌ الْاَصْلُ —

النَّحْوَرَةُ: طَبِيعَةٌ — كَمَا جَاءَتْ فِي "هُوَ كَرِيمٌ
النَّحْوَرَةُ" وَهُوَ كَرِيمٌ الطَّبِيعَةُ — نَحْرٌ رَاسْتَهُ — يَهْتَدِي
رَاسْتَهُ سَهْلًا هُوَ اِكْتِسَابُ رَاسْتَهُ — نَحْرٌ نَحْوَرِيٌّ —
النَّحَازُ: بَادِنٌ — اَوَّلُهُ —

نَحْسٌ (ف) نَحْسًا وَنَحْسٌ (ك) نَحْسًا وَ
نَحْوَسَةٌ طَالِعٌ الْاِنْسَانِ: بِدَرَسَتِ هُوَ — نَحْوَسٌ
هُوَ — صِفَتُهُ نَحْسِيٌّ وَنَحْسِيٌّ وَنَحْوَسِيٌّ اِدْرَاكًا
جَاءَتْ فِي "يَوْمَ نَحْسٍ وَنَحْسٍ وَنَحْسٍ وَ
نَحْسٍ وَ اَيَّامٌ نَوَاحِسٌ وَ نَحْسَاتٌ وَ
نَحْسَاتٌ" تَامًا بَارَكٌ دُونَ —

نَحْسَةٌ (ف) نَحْسًا طَلِمَ كَرَبًا —
أَنَحْسَتِ النَّازُ: اِكْتِسَابُ زِيَادَةٌ دُونَ مِمَّنْ هُوَ
هُوَ —

نَحْسٌ الْاِخْتِيَارُ: تَجَسُّسٌ كَرَبًا — مِمَّنْ لِيَا —
نَحْسٌ الرَّجُلِ: بِمِثْلِ مِثْلِهِ هُوَ — لِيَشْرِبَ
الدَّوَاءَ: دَوَاءٌ يَهْتَدِي كِي لِيَهْتَدِي بِمِثْلِ مِثْلِهِ
(وَاسْتَشْعَشَعَ) الْاِخْتِيَارُ وَعَنْهَا: تَجَسُّسٌ كَرَبًا اِدْرَاكًا
حَقِيقَتُهُ رِيَاثَتُ كَرَبًا —

نَحَاخَسَ وَنَحَاخَسَ فَلَانِي: اِدْرَاكًا هَتَّ كَرَبًا —
عَامٌ نَحَاخَسٌ — خَلَكٌ سَالِمٌ نَحَاخَسٌ —

النَّحْسُ: مِمَّنْ تَامًا بَارَكٌ — نَحْوَسٌ — كَمَا جَاءَتْ فِي
يَوْمَ نَحْسٍ وَ اَيَّامٌ نَحْسٍ: تَامًا بَارَكٌ دُونَ نَحْوَسٌ
نَحْوَسٌ وَ اَنَحْسُ — النَّحْسُ: مَشَقَّةٌ وَ
تَكْلِيفٌ — اِيْمَانًا مِمَّنْ جَسَّ كَاكُوْنِي حَلِّ نَظَرُهُ اَعْبَدَ —
نَحْوَسِيٌّ: مِثْلُهُ هُوَ — اَطْرَافُ اَسْمَانٍ مِمَّنْ غِيَابًا —
النَّحْسَانُ: زَجَلٌ اِدْرَاكًا مِمَّنْ السُّعْدَانِ: مِثْلُهُ

اِدْرَاكًا هُوَ —

النَّحْسُ: مِمَّنْ كِي اِنْسَانِيٌّ — مِمَّنْ كِي اِنْسَانِيٌّ —
اِكْتِسَابُ رَاثٍ مِمَّنْ كُوَيْبَتِ مِمَّنْ هُوَ —

النَّحَاثُ: بِمِثْلِ مِثْلِهِ النُّونُ: تَامًا اِكْتِسَابُ
دُونَ اِنْسَانِيٌّ بِمِثْلِ مِثْلِهِ كِي طَبِيعَةٌ — كَمَا جَاءَتْ فِي "هُوَ
كَرِيمٌ النَّحَاثُ" وَهُوَ فَيَاضٌ طَبِيعَةٌ كَمَا هُوَ — بِرَجْعِ
كَامَالِكٌ — جَنَابَتِي دُونَ هُوَ اِكْتِسَابُ دُونَ هُوَ اِكْتِسَابُ
بِمِثْلِ مِثْلِهِ —

النَّحَاثُ: مِثْلُهُ — تَامًا كَمَا كَرَبًا كَرَبَةً دُونَ —
النَّحَاثُ: تَامًا بَارَكٌ وَ نَحْوَسٌ جِيَارِيٌّ —
بَاعَثَ نَحْوَسًا اِمْرًا —
النَّحَاثَةُ: جَلِيٌّ هُوَ كَرَبًا —

نَحَصَتْ (ف) نَحْضًا النَّاقَةَ: اِدْرَاكًا
بِمَثَلِ مِثْلِهِ هُوَ — اِيْمَانًا كِي دُونَ هُوَ اِكْتِسَابُ
صِفَتُهُ نَحْصِيٌّ وَ نَحْصِيٌّ — نَحْصٌ وَ
نَحَاثُ —

النَّحْصُ: دَامِنٌ كَرَبًا — اِيْمَانًا مِمَّنْ هُوَ: دُونَ
لِيَا مِمَّنْ —

نَحْضٌ (ف) نَحْضًا النَّحْمَ: كَوْشَتُ
اِتَارًا — فَلَانَا: اِمْرًا سَهْلًا كَرَبًا —
النَّحْمُ: بِمِثْلِ مِثْلِهِ سَبَبٌ كَرَبًا اِتَارًا لِيَا —
النَّحْمَانُ: بِمِثْلِ مِثْلِهِ كَرَبًا — هُوَ الدَّهْرُ: نَقْصَانُ
بِمِثْلِ مِثْلِهِ —

نَحْضٌ (ف) نَحْضًا وَنَحْضٌ وَنَحْضٌ
ذِيًا هُوَ — كَمَا كَرَبًا دُونَ هُوَ — صِفَتُهُ نَحْضِيٌّ وَ
نَحْضِيٌّ —

نَحْضٌ (ك) نَحَاثَةً — مِمَّنْ هُوَ — زِيَادَةٌ
كَوْشَتُ دُونَ هُوَ — صِفَتُهُ نَحْضِيٌّ وَ
نَحْضِيٌّ —
النَّحْضُ الشَّقِيُّ: بِمَعْنَى نَحْضِ الشَّقِيِّ —
النَّحْضُ: مِمَّنْ — مِمَّنْ كَوْشَتُ — نَحْضٌ نَحَاثُ وَ
نَحْضِيٌّ —

النَّحْضَةُ: كَوْشَتُ اِيْمَانًا كَرَبًا كَرَبًا اِدْرَاكًا
نَحْطٌ (ض) نَحْطًا وَ نَحْطًا الْقَوْمُ:
كَمَا كَرَبًا كَرَبًا مِمَّنْ هُوَ — (نَحْطًا)
لِيَهْتَدِي بِسَبَبِ مِمَّنْ لِيَا — (نَحْطًا) السَّائِلُ:
اِكْتِسَابُ دُونَ هُوَ اِكْتِسَابُ دُونَ هُوَ اِكْتِسَابُ دُونَ هُوَ اِكْتِسَابُ

النَّحَاظُ: فَالٌ — نَحْطًا كَرَبًا —
النَّحَاظُ: فَالٌ — نَحْطًا كَرَبًا —
النَّحَاظُ: فَالٌ — نَحْطًا كَرَبًا —
النَّحَاظُ: فَالٌ — نَحْطًا كَرَبًا —

النحط والنحاط والنحيط۔ سینے میں رونے کی دلی ہوئی آواز۔

النحطلة۔ اسم مرۃ۔ اونٹ اور گھوڑوں کی ایک بیماری جو سینے میں ہوتی ہے اور جس سے ہمت کم ہوتی ہے۔

المنحطۃ والمنحوطۃ۔ سینہ کی بیماری والا اونٹ یا گھوڑا۔

النحاط۔ تکبر۔ مغرور۔

نحف (س) ونحف (ک) نحافۃ لاغر ہونا یا خلیقہ ڈیلا ہونا۔ صفت نحف ج نحفون و نحیف ج نحفاء ونحاف۔ و منحوف۔

أنحفۃ لاغر کرنا۔ و لاکرنا۔

نحل (ف) و نحل (س) و نحل (ک) و نحولاً۔ بیماری یا تھکن سے ڈیلا ہونا۔

نحل (ف) نحلۃ الرّجل۔ رینا۔ المزمأۃ۔

مرورینا۔ اسم البیخلة۔ نحلۃ القول۔ غلط بات منسوب کرنا۔ زیندا۔ گالی دینا۔

نحل الشاعیر قصیدۃ۔ دوسرے کا قصیدہ منسوب کیا جانا۔

أنحل و نحل فلان ما۔ رینا۔ مبالاً۔

دینے کے لیے خاص کرنا۔ أنحلہ الہم او المزمض۔ تمہاری بیماری کا کسی کو لاغر کرنا۔

اننحل و ننحل مذہب کذا او قبیلۃ کذا۔ منسوب ہونا۔ اننحل و ننحل الشجر او القول۔ دوسرے کے شعرا قول کو اپنی

طرف منسوب کرنا۔

النحل۔ شد کی کہیاں۔ واحد نحلۃ۔ النحل۔ لاغر و دلا۔ عطیہ۔ بخشش۔ نیا جانے۔ کہا جاتا ہے

”أهلۃ نحل“

النحل والنحلی والنحلان۔ عطیہ۔ ہیر۔

البیخلة والنحلة۔ عطیہ۔ ہیر۔ عورت کو مہر دینا۔ دومی۔ مذہب۔ دین۔ ج نحل۔ و نحل۔ کہا جاتا ہے ”ما نحلک“ یعنی تمہارا دین کیا ہے۔

النحل۔ النحلۃ۔ لاغری۔

النحاح۔ فا۔ ہاریک۔ کہا جاتا ہے ”سینف ناجل“ یعنی ہاریک تواری۔ ”و جمل ناجل“ یعنی لاغراونٹ۔ ج نحول (جیسے شاہد و مشہور)

التاحیۃ۔ الناحل کا مؤنث۔ ج نواجل۔

النواجل۔ وہ تلواریں جن کی دھاریں کثرت استعمال سے پھلی ہو گئی ہوں۔

النحیل۔ و بلا۔ ج نخلی۔

نحم (ض) نحمنا و نحینما و نحمانا الرّجل۔ کھکھارنا۔

الأنسد۔ شیر کا گونجا۔

إنحیم علی کذا و کذا۔ پختہ ارادہ کرنا۔

النحام۔ سرخ رنگ اور لمبی گردن اور ٹیڑھی چونچ والی مرغالی۔ واحد نحامۃ۔

النحمة۔ کھانسی۔

النحیم۔ پیٹ کی گڑگڑاہٹ۔

زجل نحم۔ پیٹ کی گڑگڑاہٹ والا مرد۔

النحام۔ ہمت۔ پیٹ کی گڑگڑاہٹ والا۔ شیر۔

نحل۔ ہم۔ جمع تکلم کی ضمیر۔

نحیح و ننحیح الرّجل۔ گلا صاف کرنا۔

کھکھارنا۔ سینے سے آواز نکالنا۔ ننحیح فلاناً۔

بری طرح سے ہٹانا۔ کہا جاتا ہے ”ما أنا بنحیح النفس عن کذا“ میرا ہی اس سے خوش نہیں۔

النحایحۃ۔ بخیل و کینے۔

نحینحون نحون الشئی۔ قصد کرنا۔ نحانحون فلان یروی کرنا۔ نحانصروہ الیہ۔ کسی کی طرف

نگاہ بھیرنا۔ الرّجل۔ اپنی دو جانوں میں سے ایک جانب بھگا ہوا ہونا۔ فلاناً عنہ۔ بھیرنا۔

ہٹانا۔ الشئی۔ جھکانا۔

نشی نصحیۃ الرّجل عن مؤضیجہ۔ ہٹانا۔ معزول کرنا۔ طمیرہ کرنا۔

ناحاه مباحۃ۔ باہم ایک دوسرے کی جانب ہونا۔

استعمال کرنا۔

النحو۔ جانب۔ جت۔ راست۔ حیل۔ مقدار۔

قصد و ارادہ۔ اور بلور طرف واسم مستعمل ہوتا ہے ج أنحاء۔ و علم النحو۔ وہ علم جس میں

کلمات عرب کے احوال مثل اعراب و نحو ترکیب و افراد سے بحث کی جائے اور اس علم کا نام علم نحو

اس وجہ سے ہے کہ تکلم عرب کے طریقے پر چلنا ہے۔ ج أنحاء و نحو اور لغویۃ جیسے ذلت و ذلیقۃ۔

النحوئی۔ علم نحو کا جاننے والا۔ ج نحوئیون۔

التاحی۔ فا۔ نحو کا جاننے والا۔ ج نحافۃ۔

التاحیۃ۔ جانب و جت۔ ج ناحیات و نواح و النحیۃ۔

نحی ینحی و ینحی نحیاً۔ اللّبن۔ دودھ ہونا۔ حمتا۔ مسکے نکالنا۔ الشئی۔ ذرا کل کرنا۔

نصروہ الیہ۔ نگاہ بھیرنا۔

نحافہ بنحینہ نحیاً۔ ایک گوشہ میں کرنا۔

أنحی لہ السبأخ۔ ہتھیار سے مارنا۔

علیہ بالشیف۔ تلوار کے ساتھ متوجہ ہونا۔ کہا جاتا ہے أنحی علیہ باللوائیم وہ اس پر ملامت کے ساتھ متوجہ ہوا۔

نحافہ نصحیۃ۔ ذرا کل کرنا۔ جھکانا۔

ننحی نصحیاً۔ ذرا کل ہونا۔ جھکانا۔

إنحی فی الأمر۔ کوشش کرنا۔ فی الشئی۔ اہتمام کرنا۔

النحی والنحی والنحی۔ گھی کی مٹک۔

دودھ بلونے کا برتن۔ چوڑے چل کا تیر۔ ج أنحاء و نحافہ و نحی۔

النحیۃ۔ ارادہ۔ نشانہ۔ کہا جاتا ہے ”فلان نصحیۃ الشّدائد“ اللاس تختیوں کا نشانہ ہے۔

المنحافۃ۔ پانی بننے کی تیز دار جگہ۔ پانی لانے والے اونٹ کا راستہ۔ ج مناح۔ أهل المنحافۃ۔

بیگانے لوگ۔

نح (ن) نحا۔ تیز چلنا۔ الایبل۔ اونٹ کو تیز چلانا۔ الایبل و ما لایبل۔ اونٹ بٹھانے کے لیے اٹھنا یا تیز چلنا۔

النح۔ لہ۔ لہا فرش۔ ج أنحاء۔

النحۃ۔ اسم مرۃ۔ ہلکی بارش۔ کام کرنے والے

آفتہ: ناک صاف کرنا۔

التَّخَطُّ وَالتَّخِطُّ: لوگ۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْرِي أَيْ التَّخِطُّ هُوَ" میں نہیں جانتا کہ وہ کون آوی ہے۔

التَّخِطُّ: حرام مغز۔ پتہ دانی کی چھلی کپانی۔
التَّخِطُّ: بہادری کی وجہ سے نیزہ سے کھیلنے والے لوگ۔

نَخَع (ف) نَخَعًا الدَّيْبِيَّةُ: ذبح کرنے میں چھری کو حرام مغز تک پہنچانا — الْأَمْرُ عِلْمًا: اچھی طرح سے آگاہ ہونا — هُ الطَّاعَةُ أَوْ التَّصَبُّحَةُ: فرما بہر داری یا صحت یا خالص طریقے سے کرنا — الرَّجُلُ: سینے یا ناک سے کسی چیز کو گمرانا (— نَخَوْعًا) لَهُ بِحَقِّهِ: اقرار کرنا۔

نَجَع (س) نَجَعًا الْغُزْدُ أَوْ النَّبَاتُ: ککڑی یا نباتات سے پالی نکالنا — فَلَانٌ بِحَقِّي: اقرار کرنا۔

تَنَخَّعَ الرَّجُلُ: کھکھارنا (— اِنْتَخَعَ) السَّحَابُ: سارا پانی برسا دینا۔ وَاِنْتَخَعَ الرَّجُلُ عَنْ أَزْوَاجِهِ: دور ہونا۔

التَّخَاعُ: بتسلیمت النون: حرام مغز۔ ج نَخَعُ: کھکھار۔ بلغم۔

التَّخْوَعُ: مہ۔ حق کا اقرار۔
الْأَنْخَعُ: اسم تفضیل۔ بمعنی اول واقرب۔ بہت زیادہ ہلاک کرنے والا۔

الْمَنْخَعُ: گردن اور سر کا اندرونی جوڑ۔ حرام مغز کھنے کی جگہ۔

نَخَفَ (ف) نَخَفًا وَنَخِيفًا: چھپکتے ہوئے آواز نکالنا (اور یہ بکری کے لیے خاص ہے) أَنْخَفَ: چھپکتے ہوئے بہت آواز نکالنا۔

التَّخْفَةُ: پھاڑکی چوٹی میں پست زمین۔
النَّخَافُ: چری موزہ۔ ج أَنْخَفَ۔

نَخَلٌ (ن) نَخْلًا الدَّقِيقُ: چکی خیر خواہی یا خالص دوستی کرنا۔ (— وَنَخَلٌ السَّحَابُ الْقَالِجُ: بادل کا پتھر برسانا۔ برف گمرانا۔

تَنَخَّلَ وَالتَّخَلَّلَ الشَّيْءُ: چٹنا۔ عمدہ لینا۔

التَّخَلُّ وَالتَّخِيلُ: کھجور کا درخت۔ واحد تَخْلَةٌ وَتَخِيلَةٌ۔
التَّخَالَةُ: بھوسی جو چھلی میں رہ جائے۔ غلہ جو چھانا جائے۔

التَّخِيلَةُ: طبیعت۔ خالص خیر خواہی۔ ج تَخَائِلٌ: کہا جاتا ہے "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا تَخَائِلَ الْقُلُوبِ" اللہ تعالیٰ صرف خالص نیتوں کو قبول فرماتے ہیں۔

التَّخَايَلُ: فا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ تَخَايَلُ الصَّدْرِ" وہ خیر خواہ ہے و "تَصَبُّحَةُ تَخَايَلَةٍ" چکی خیر خواہی۔

التَّخْعَالُ: بہت کھجور کے درختوں والا۔ آٹا چھانسنے والا۔

الْمُنَخَّلُ وَالمُنَخَّلُ: چھلی۔ ج مَنَخِلٌ۔
نَعَمٌ (ن) نَخْمًا: کھیلنا۔ عمدہ گانا۔ صفت تاجم۔
نَعِمٌ (س) نَخْمًا وَنَخْمًا وَتَنَعَمٌ: کھکھارنا۔ ناک صاف کرنا۔

نَعِمٌ (س) نَخْمًا الرَّجُلُ: کھکھارنا۔
النَّخَامَةُ: کھکار۔ رینٹ۔ بلغم۔
النَّخْمَةُ: اسم مرہ۔ کھکھار۔ رینٹ۔ خوبصورتی و زیبائی۔ بہادری۔ لہانچہ۔

نَخْنَعُ التَّبَعِيُّ: اونٹ کو بٹھانا — نَخْنَعُ فَلَانًا: ڈانٹنا۔ بٹھانا۔ نَخْنَعُ الرَّجُلُ: تیز چلنا۔

نَخْنَعُ بِالْإِبِلِ إِخْرَاجَ كَمَرٍ كَرَاثَاتًا كَمَا يَبْهَجُ جَائِعٌ۔
تَنَخْنَعُ التَّبَعِيُّ: اونٹ کا بیٹھنا۔
نَخْنَعُ نَخْوَةَ الرَّجُلِ: تعریف کرنا۔

نَخْنَعُ نَخْوَةَ الرَّجُلِ: فخر کرنا۔ بڑا بٹھانا۔
النَّخِيَةُ: انخاع۔ کبر و غرور زیادہ ہونا۔

النَّخِيَةُ: انخاعًا عَلَيْنَا: بڑا بٹھانا۔ کھبر کرنا —
مِنْ كَذَا: تنگ جانا۔
النَّخْوَةُ: مہ۔ دلیری۔ مروت۔ بڑائی۔ کبر و غرور۔

نَدَّ (ض) نَدًّا وَنَدِيدًا وَنَدُوْدًا وَنَدَادًا التَّبَعِيُّ: اونٹ کا بدک کر بھاگ جانا۔ کہا جاتا ہے نَدَّبَتِ الْكَلْبِمَةُ: شازہ ہونا۔ کم مستعمل ہونا۔

نَدَّدَ الْإِبِلُ: اونٹوں کو متفرق کرنا —
بِالشَّيْءِ: بدنام کرنا — بِفُلَانٍ: عیوب ظاہر کرنا۔ فصیح بات سنانا — صَوْتُهُ: آواز بلند کرنا۔

أَتَدَّ الْإِبِلُ: اونٹوں کو متفرق کرنا۔

نَادَةٌ مَنَادَةٌ: مخالفت کرنا۔

تَنَادَ الْقَوْمُ: باہم مخالفت کرنا۔ ایک دوسرے سے بدکرنا۔ متفرق ہونا۔ تَنَادَبَتِ الْإِبِلُ: اونٹوں کا بدک کر بھاگ جانا۔

النَّادُ: فا۔ اور کہا جاتا ہے "لَيْسَ لَهُمْ نَادٌ" ان کیلئے رزق نہیں۔ ج نَدَادٌ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔

النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔

النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔

النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔

النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔

النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔

النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔

النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔

النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔

النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔

النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔
النَّدِيَّةُ: نلہ۔ بلند پستہ۔

بظہرہ و فی ظہرہ: نشان چھوڑنا۔

نَدَبٌ (ک) نَدَابَةُ الرَّجُلِ: ذریک ہونا۔
ہو شیار و چست ہونا۔

انْتَدَبَ لِبَلَدَانِ: تردید کرتا۔ کہا جاتا ہے
”تَكَلَّمَ فَأَنْتَدَبَ لِبِلْدَانَيْنِ“ اس نے گفتگو کی اور
فلاں نے اس کی تردید کی۔ انْتَدَبَهُ لِأَمْرِ: بلاوے
پر جواب دینا اور کہتے ہیں ”خُذْنَا انْتَدَبًا“ یعنی
لو جو آسان ہو۔

الْتَدَبُ: مع۔ فضائل کی طرف سبقت کرنے
والا۔ شریف دانا۔ مرد کم حاجت۔ جِ نَدُوبٌ و
نَدَبَاءُ: فَرَسٌ نَدَبٌ: تیز گھوڑا۔

الْتَدَبُ: مع۔ نشان زخم۔ جِ نَدُوبٌ: گھوڑوڑ
یا تیر پاؤں کی شرط کہ جو غائب ہو لے۔ تیز تیر
پھینکنے والی کمان۔ کہا جاتا ہے ”زَمِنْنَا نَدَبًا“ یعنی
تیز تیر پھینکنے والی کمان چلائی۔ جِ انْتَدَابُ:

الْتَدَبَةُ: اسم مرۃ۔ مَوْتٌ الْتَدَبُ ()
والْتَدَبَةُ: نشان زخم جو جسم پر باقی رہ جائے۔ جِ
نَدَبٌ جِ نَدُوبٌ و انْتَدَابُ:

الْتَدَبَةُ: میت کے محاسن و فضائل بیان کرنا اور
کہا جاتا ہے کہ ”عَرَيْتُ نَدَبَةً“ یعنی فصیح عربی
الْمَنْدَبُ: میت پر رونا۔ جِ مَنَادِبُ:

الْمَنْدَبِيُّ: مرد کم حاجت۔
نَدَحٌ (ف) نَدَحًا الشَّيْءُ: کشادہ کرنا۔
نَادَحَهُ: کسی سے کسی چیز کے زیادہ ہونے میں
مقابلہ کرنا۔

تَنَدَحَتْ و انْتَدَحَتْ الْعُتْمَةُ فِي مَرَابِعِهَا او
مَسَارِحِهَا: گھریوں کا بیٹھنے کی جگہ یا چراگاہ میں
منتشر ہونا۔ متفرق ہونا۔ و تَنَدَحَتْ پری حکم سے
پھولنا۔

النَّدْحُ و النَّدْحُ: کشادگی۔ کثرت۔ پہاڑ کا کنارہ
جو تمہارے مقابل ہو۔ جِ انْتَدَاحُ:
النَّدْحُ و النَّدْحُ و النَّدْحَةُ و النَّدْحَةُ: کشادہ
زمین۔

النَّدْحُ: بوجہ۔ چیز جس کو تم دور سے دیکھو۔
النَّدْحَةُ و النَّدْحَةُ: کشادگی۔ گنجائش۔ کہا
جاتا ہے ”لَكَ عَنِ هَذَا الْأَمْرِ مَنَدْحَةٌ او
مَنَدْحٌ“ تم کو اس کام میں آزادی ہے اور تم کو
اس کا چھوڑنا ممکن ہے۔ ”وَلَكُ مَنَدْحٌ لِي“

النَّدْحَةُ: تمہارے لیے ملکوں میں گنجائش ہے

— أَرْضٌ مَنَدْحَةٌ: دور کی کشادہ زمین۔
النَّدْحُ: دور کی کشادہ زمین۔

نَدَحَهُ (ف) نَدَحًا: کھلا دینا۔ سمندر کا مسافر کرتا
ہے ”النَّدْحَةُ الْمَرْكَبُ سَاحِلٌ كَذَا“ ہم نے
جہاز کو فلاں ساحل سے کھرا دیا۔

تَنَدَحَ الرَّجُلُ: بڑھا نکلتا۔
النَّدْحُ: بیوقوف غبی کم بولنے والا۔

النَّدْحُ: بری بات کہنے اور سننے میں لاپرواہ۔
نَدَّرَ (ن) نَدَّرًا و نَدَّرًا: الشَّيْءُ: نار ہونا۔ کسی
چیز میں سے گر کر نمایاں ہونا — مِنْ مَوْضِعِهِ:
زائل ہونا — فَلَانٌ مِنْ قَوْمِهِ: نکل جانا

— الشَّجَرَةُ: پتیاں لگانا یا سبز ہونا —
الشَّيْءُ: تجربہ کرنا — التَّنْبَاتُ: پتوں والی ہونا

— الرَّجُلُ: مرنا — الرَّجُلُ فِي فَضْلِ
او عِلْمٍ: فضیلت یا علم میں بڑھ جانا۔
نَدَّرَ (ک) نَدَارَةً الْكَلَامُ: فصیح ہونا۔ عمدہ ہونا۔
عجیب و غریب ہونا۔

انْتَدَرَ: نار قول یا فعل کرنا — الشَّيْءُ: گمراہ
— الْعَظْمُ: جگہ سے ہٹانا۔
تَنَادَرَ عَلَيْنَا: نوادر بیان کرنا۔ و تَنَادَرُوا
الشَّيْءُ: گمراہ۔

اسْتَنْدَرَهُ: نار سمجھنا — الْقَوْمُ أَوْرَهُ:
پہچھے جانا۔
النَّدَرُ: نار۔ کہا جاتا ہے ”شَيْءٌ نَدَّرٌ“ نار چیز پر
وصف بالمصدر ہے۔

النَّدَرَةُ: چاندی یا سونے کا ٹکڑا جو کلاں میں پایا
جائے () والنَّدَرَةُ: کمی۔ کمیالی۔ کہا جاتا ہے
”لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا نَدْرَةً و لِي النَّدَرَةُ“ یعنی یہ
ہست کم ہے۔

القَادِرُ: تا — مِنَ الْكَلِيمِ: کیاب۔ شاذ و
مخالف قیاس — مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ کا ٹکڑا ہوا
حصہ۔

النَّادِرَةُ: النَادِرُ کا مَوْتٌ۔ جِ نَوَادِرُ: نَوَادِرُ
الْكَلَامِ: عجیب کلام۔ شاذ۔ فصیح و عمدہ۔ اور کہا جاتا
ہے ”هِيَ نَادِرَةٌ الزَّمَانِ“ وہ یکاے زمانہ ہے۔
النَّدَرِيُّ: نار کیاب اور اسی سے ہے جو کہا جاتا
ہے ”لَقِينَهُ نَدْرِي و فِي نَدْرِي و النَّدْرِيُّ و لِي“

النَّدْرِيُّ“ یعنی میں نے اس سے گاہے ماہے
ملاقات کی۔

النَّدَرُ: گیسوں کا کھلیان۔ کھلیان۔ جِ انْتَادِرُ:
النَّدْرِيُّ: موٹی سی۔

نَدَسَةٌ (ن) نَدَسًا بِالرَّمِيحِ: نیزہ مارنا۔
— هُ بِكَلِمَةٍ: کسی کے متعلق کوئی کلمہ کہہ

دینا۔ نَدَسَ بِهِ الْأَرْضُ: زمین پر ٹپک دینا —
هُ عَنِ الظَّرْفِيِّ: راست سے ہٹانا — سَعْيُهُ
الظَّنُّ: بدگمانی کرنا — الْأَرْضُ بِرَجْلِهِ:
زمین پر پاؤں پٹکانا۔

نَدَسٌ (س) نَدَسًا الْغَلَامُ: سمجھدار و ذریک
ہونا۔ صفت نَدَسٌ و نَدِسٌ و نَدَسٌ:
نَادَسَهُ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔

تَنَدَسٌ: گر پڑنا۔ بچھڑنا۔ کہا جاتا ہے ”نَدَسَ بِهِ
الْأَرْضُ فَتَنَدَسَتْ“ اس نے اس کو زمین پر ٹپک
دیا اور وہ گر گیا — مَاءٌ الْبَيْتِ: کتوں کے پانی
کا بہنا — الرَّجُلُ الْأَخْبَارُ و عَنِ الْأَخْبَارِ:
خبروں کی جستجو کرنا تاکہ دوسروں سے عقلی خبر
معلوم ہو جائے۔

تَنَادَسَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو بڑھا نکلتا۔
النَّدَسُ: مع۔ پست آواز۔ پست آواز کو تیز سننے
والا۔ سمجھ دار۔

النَّدَسُ: سمجھ و ذریک۔
رِمَاحٌ نَوَادِسُ: لگنے والے نیزے۔ زخم کرنے
والے نیزے۔

الْمِنْدَاسُ مِنَ الْقِتَاءِ: ہلکی پھلکی سمجھ دار
عورت۔
الْمِنْدَوَسَةُ: گھریلا۔

نَدَسٌ (ض) نَدَسًا و نَدَسًا عَنِ الشَّيْءِ: کھود
کر دینا — الْقَطْنُ: روٹی و حننا۔
نَدَسَ (ن) نَدَسًا و نَدَوَسًا الشَّيْءَ مِنْ
الشَّيْءِ: نکل جانا — الرَّجُلُ: جلدی سے
لگانا — عَلَى الْقَوْمِ: کمرہ چیز کے ساتھ
ظاہر ہونا — الْقَوْمُ: لوگوں کے ساتھ
شرارت کرنا () نَدَوَسًا عَيْشُهُ: گھام گھونٹنے
ہونے کی مانند آنکھیں باہر کو نکل پڑنا۔
نَدَسَتْ (س) نَدَسًا الْبُقْعَةُ: بھنسی سے
دبانے کی وجہ سے خون لگانا۔

أَنْدَضَ وَاسْتَنْدَضَ حَقَّةً مِنْ فُلَانٍ: حَتَّى وَصَلَ كَرْتَا - حَاصِل كَرْتَا -
 الْبِنْدَاصُ - قَوْمٌ كَسَمْتَهُ بِبِشْ بِرِي وَشَرَارَتِ كَرْتَا وَالْأَجْمَعُ مَتَادِينِي -
 إِهْمُؤُا فَمِنْدَاصٌ وَنَدَصَةٌ - يَتَوَقَّفُ بِرِزْيَانِ عَوْرَتِ - خَيْفِ الْعَقْلِ عَوْرَتِ -
 نَدَعَةٌ (ف) نَدَعًا أَهْلِي جَبُونًا - هُ بِالرُّمُوحِ أَوْ الْكَلَامِ: نِيْزُهُ رَاكِبًا - بَرَاكِبًا -
 الرَّجُلُ: فَكَيْنِ كَرْتَا - نَدَعَةُ الْعَقْرِ: بِجَمْعِ كَا وَنَا -
 نُدُغُ الْعَصِي: كَرْدُ كَرْتَا جَانَا -
 نُدُغُ الْعَجِيْنِ: كَوْنُهُ مَعِي بُوْنِي آسِي رِي كَشِكِ آسِي رَا -
 نَادَعَةٌ بِأَهْمِ عَشْقِ بَارِي كَرْتَا -
 أَلْدَغُ بِهِ: بِرِ اسْلُوكِ كَرْتَا -
 الْبُدُغُ: أَسْرَتُهُ نَسَا -
 التَّدْغُ وَ الْبُدْغُ: جَمْعِي صَحْتَرِ التَّدْغِ شَرْدِ -
 التَّدْغَةُ وَ الْمِنْدَغَةُ: نَاصِحِي كِي بَرِي شِيْرِي -
 الْجِنْدَغُ: نِيْزُهُ بَارِي - كَلَامٌ سِي تَكْلِيْفِ بِبَجَانِي وَالَا -
 نَدَفٌ (ض) نَدَفًا الْقَطْلُ: رُوِي وَحْتَا -
 بِالْعَوْدِ أَوْ الْمَرْهَوِي: بِرِي بِرِي سَارِغِي بَجَانَا -
 الْقَطْعَامُ: كَمَا نَا - الدَّابَّةُ: جَوَابِي كُو تِيْرِي بَاكِنَا - تَلَفَتِ السَّمَاءُ بِالْفُلُجِ: آسِي رَا كَا بِرِي بَرَسَا -
 نَدَفْتُ (ض) نَدَفًا وَنَدَيْفًا وَنَدَفَانَا الدَّابَّةُ: رِقَارِي فِي تِيْرِي سِي دُولُوں أَهْلِي تَاغُولُوں كُو بِجَرَا -
 أَنْدَفَ: بِرِي كِي آوَارِي كِي طَرَفِي نَاكِلِ هُوْنَا -
 الدَّابَّةُ: جَوَابِي كُو تِيْرِي بَاكِنَا - الْكَلْبُ: كَسِي كُو بَا -
 نَدَفٌ تَدَيْفًا الْقَطْلُ: رُوِي وَحْتَا -
 النَّدْفَةُ: تَمُوْرُ اسَاوُدُوهُ -
 النَّدْفُ: وَحْشِيَا - بِرِي بِرِي نَوَارِي - بِرِي كَمَا نِي وَالَا -
 الْبِدَاةُ: رُوِي وَحْتَا كَابِيْشِي -
 التَّدْيِيْفُ مِنَ الْقَطْلِ: وَحْشِي هُوِي رُوِي -
 الْمِنْدَفُ وَ الْمِنْدَقَةُ: رُوِي وَحْتَا كِي كَمَا نِي -
 نَدَلٌ (ن) نَدَلًا الشَّيْءُ: جَلْدِي سِي أَجَكِي لِيْنَا -
 فَهْلُ كَرْتَا - الدَّلُوْمِي مِنَ الْبِيْرِي: كَوْنِي سِي

وَحَوْلِ كَيْفِيَا - بِسَلْمِيْعِمِ بِأَسْمَانِي كَرْتَا -
 نَدَيْتُ (س) نَدَلًا نِيْدَةً بِأَهْمِ كَا سِيْلَا بِجَلَا هُوْنَا -
 تَكْدَلُ وَ تَمْدَدَلُ بِالْجِنْدِيْلِ: رُوِي سِي بِوَجْهِيَا - سِرَرِ رُوِي لِيْلِيَا -
 إِتَمَدَلُ الْعَالُ: بِرِدَاةُ كَرْتَا -
 التَّدَلُ: سِي - سِيْلِي بِكِيْلِي -
 التَّدَلُ: كَمَا نِي كَلَا نِي وَآجِي خَدَامِ -
 الْمَتَدَلُ: جَرِي مَوْزِي - عَمُوْرُ جِ مَتَادِيْلِي -
 الْجِنْدَلُ وَ الْجِنْدِيْلُ وَ الْمَتَدِيْلُ: رُوِي - جِ مَتَادِيْلِي وَ مَتَادِيْلِي - الْمِنْدَلُ: أَجَكِي لِيْنِي وَالَا - وَهُ فَهْلُ جَوْدُولُوں بِأَهْمُوں سِي جَلُوْنِي -
 التَّقْوَلُ: بِسْتَانِ -
 نَدِيْمٌ (س) نَدِيْمًا وَنَدَامَةٌ وَتَدَمُّ عَلَى مَا فَعَلْتُ: بِشِيَانِ كَرْتَا -
 أَلْدَمَةُ: بِشِيَانِ كَرْتَا -
 نَادَمَةٌ نَدَامًا وَ مَنَادَمَةٌ عَلَى الشَّرَابِ بِهْمِ فَهْلِيْنِ هُوْنَا -
 تَنَادَمَ الْقَوْمُ عَلَى الشَّرَابِ: بِهْمِ فَهْلِيْنِ كَرْتَا -
 إِتَدَمَ الْأَمْرُ: آسَانِ هُوْنَا - كَمَا جَانَا سِي "خُدَمًا إِتَدَمَ" لَوَجُوْرِ آسَانِ هُوِي -
 التَّقَادِمُ: بِشِيَانِ - شَرْمَتِي - جِ نَادِمُوْنِ وَنَدَمُ -
 التَّدْعَانُ: بِشِيَانِ وَ شَرْمَتِي - جِ نَدَامِي وَنَدَمَانِ (شَلْ طَرَفِي) مَوْنَسُ نَدَمَانَةً وَنَدَمِي - التَّدْعَانُ: جَمْعِي شَرَابِ كَاهِمِ فَهْلِيْنِ -
 التَّدَمُّ: تِيْرِي طَبِيْعَتِ - زِيْرِي كِ -
 التَّدَمُّ: سِي - فَهْلِيْنِ -
 التَّقْدِيْمُ وَ التَّدِيْمَةُ: جَمْعِي شَرَابِ كَا سَامِي -
 رَشِي وَسَامِي - جِ نَدَامُ وَنَدَمَاءُ وَنَدَمَانُ -
 الْمَتَدَمُّ: بِشِيَانِي -
 الْمَتَدَمَةُ: بِعَاصِمِ بِشِيَانِي -
 نَدَهٌ (ف) نَدَهَا الرَّجُلُ: آوَارِي رِيَا -
 الرَّجُلُ: وَآشِيَا - جَلَا كَرْدِي كَارَتَا - الْإِيْلِي: أَكْشَا بَاكِنَا -
 إِتَنَدَهُوْا: اسْتَنْدَهُوْا الْأَمْرُ: دُورَسْتِ هُوْنَا -
 التَّنَدَهُوَ النَّدَهُةُ: بِرِي مَوْنَسُ النَّدَهُةُ: آوَارِي -
 التَّقْوَادِيْهِ: وَحْمِيْلِي -
 نَدَا يَنْدُو نَدُوًا الْقَوْمُ: جَمْعِي هُوْنَا دُورِ جَمْعِي فِيْنِ حَاضِرِ هُوْنَا - الْقَوْمُ: جَمْعِي فِيْنِ جَمْعِي كَرْتَا - كَمَا

جَانَا سِي "مَا يَنْدُوهُمْ التَّادِي" جَمْعِي فِيْنِ اَنْ كِيْلِيْنِي كَمَحَاكِيْشِ فِيْنِ - الرَّجُلُ: جَمْعِي كَرْتَا -
 بِرِدَاةُ هُوْنَا - الشَّيْءُ: جَمْعِي هُوْنَا -
 نَدِيْمٌ يَنْدِي نَدِيْمًا وَنَدَاؤُهُ وَنَدُوُّ الشَّيْءِ: بِرِدَاةُ هُوْنَا - الْاَزْرُ: تِيْرِي بِبَجَانِي -
 الْعَوْدُ دُورِي هُوْنَا - اُوْرِي كَمَا جَانَا سِي "مَا نَدِيْمْتُ بِشِيْ مِنْ فُلَانٍ" فِيْنِ سِي لَلَا سِي كِي كَمِ حَاصِلِ فِيْنِ كِيَا - "وَمَنْتُ بِبَصْرِي فَلَمَّ يَنْدَلِيْنِي شَيْءٌ" فِيْنِ سِي لَكَلَا نَالِي مِيْرِي لِي كِي جِي مَحْرَكِ فِيْنِ هُوِي "وَمَا نَدِيْمْتُ مِنْ فُلَانٍ شَيْءٌ أَكْثَرُهُ" لَلَا سِي سِي كُو بِي كِي جِي فِيْنِ سِي كِي كُو سِي تَابِيْرِي كَرْتَا هُوِي "لَمَّ يَنْدُ مِنْهُمُ نَادٌ" سِي فِيْنِ اِيْنِ فِيْنِ سِي كُوِي بَاقِي فِيْنِ رِيَا -
 نَدِيْمٌ تَدِيْمَةُ الشَّيْءِ: بِرِي كَرْتَا - الْفَوْشُ: مَحْمُوْرِي كُو بَا نَا - بِبِيْنِي آسِي تَكِي دُورِيَا -
 نَادِي مَتَادَاؤُهُ وَنَدَاؤُهُ الرَّجُلُ وَ بِالرُّجُلِي يَكَارَتَا - فُلَانًا: جَمْعِي فِيْنِ هِيْمِ فَهْلِيْنِ هُوْنَا - مَخَارَجَتِ كَرْتَا - نَادِي بِبِيْرِي: بِبِيْدِي خَاطِرِ كَرْتَا -
 الشَّيْءُ: رِي كَانِي اُوْرِي جَانَا - فُلَانًا: مَشْهُورِي كَرْتَا -
 التَّبَيُّتُ: نَابَاتِ كَا خَاطِرِ هُوْنَا اُوْرِي مَحْمُوْرِي هُوْنَا - كَمَا جَانَا سِي "نَادِي الطَّرِيْقِي لِفُلَانٍ وَ نَادَاهُ" لِيْنِي لَلَا سِي لِيْلِي رَاسْتَا خَاطِرِ هُوِي كِيَا -
 أَنْدِي اِنْدَاةُ الرَّجُلُ: بِرِي دَاوُدِي وَحْشِي وَالَا هُوْنَا - عَمِي هُوْنَا - صَاحِبِ فَهْلِي هُوْنَا - الشَّيْءُ: بِرِي كَرْتَا - الْكَلَامُ: بِرِدَاةُ جَانِي كِي خَرَفِ سِي كَسِي وَآسِي لِي سِي وَآسِي لِي كُو بِبِيْنِي لَانَا -
 تَدَدِي الرَّجُلُ: عَمِي هُوْنَا - مَرِيَانِ هُوْنَا - سِيْرَابِ هُوْنَا - كَمَا جَانَا سِي "شَرَبْتُ حَتَّى تَدَدِي" اِسِي نِي سِي يَاهِيْلِ تَكِي كِي سِيْرَابِ هُوِي كِيَا - الْفُكَاكُنُ: كِيْلَا هُوْنَا -
 تَنَادِي الْقَوْمُ: اِيْكِي دُورِي سِي كُو رِي كَارَتَا -
 اِنْتَدِي الْقَوْمُ: جَمْعِي فِيْنِ هُوْنَا - وَ اِنْتَدِي الرَّجُلُ: جَمْعِي فِيْنِ حَاضِرِ هُوْنَا - كَمَا جَانَا سِي "مَا اِنْتَدَيْتُ مِيْنَهُ شَيْئًا" فِيْنِ سِي نِي سِي كُوِي خِيْرِ حَاصِلِ فِيْنِ كِي -
 التَّدِيْمُ: سِي - بَارَشِي - سِيْرِي كَمَا سِي - جَمْعِي - تَرْمِي -
 جَمْعِي كِي مَانِي اِيْكِي جِيْرِي سِي خُوْشِيْبُوْرِي كَرْتَا فِيْنِ - اِنْتَا - جَمْعِي - فَهْلُ وَ خِيْرِي جِيْرِي - جِ اِنْدَاةُ

نَزْرًا بِكَذَا: شیفہ ہونا۔ صفت معمولی منزورہ ہے۔
 زَجَلٌ نَزْرًا: بہت شیفہ و فریفتہ۔
 النَّزْرِيُّ: چھوٹی منگ۔
 نَزْبٌ (ض) نَزْبًا وَنَزَابًا وَنَزِيمًا: الظنبي: بہن کا آواز نکالنا۔
 تَكَزَّبَ ابًا بِالْأَلْقَابِ: ایک دوسرے کو برا لقب دینا۔
 النَّزْبُ: لقب۔ ج. انزباب۔
 النَّزْبُ: نر بہن۔ تل۔
 نَزَجَ (ن) نَزَجًا غَلَامًا: لڑکے کا نچتا۔
 نَزَحَ (ف) نَزْحًا وَنَزْوْحًا: دور ہونا۔
 نَزَحَتِ الْبَيْتُ: کنوئیں میں بہت کم پانی ہونا یا ختم ہونا۔ صفت نازح و نَزْوَحٌ و نَزْحٌ: کہا جاتا ہے "مَاءٌ لَا يَنْزَحُ" پانی جو ختم نہ ہو (وَأَنْزَحَ) الْبَيْتُ: پانی نکالنا یہاں تک کہ بہت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔
 الْقَوْمُ: کم پانی کے کنوئیں والے ہونا۔
 نَزَحَ بِلَانٍ: اپنے وطن سے بہت دور چلا جانا۔
 انْتَزَحَ عَنِ دِيَارِهِ: اپنے وطن سے دور ہونا۔
 تَكَزَّحَ: دور ہونا۔
 النَّزْحُ: گدلا پانی۔ کنوئیں جس کا زیادہ یا تمام پانی نکال دیا گیا ہو۔ ج. انزح۔
 النَّازِحُ وَ النَّزِيحُ وَ النَّزْوِجُ: دور۔
 الْمُتَنَزِّحُ: دوری۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَمْتَنِّزُحُ" میں گدلا" وہ اس سے دوری پر ہے۔
 قَوْمٌ مَّنْزَاذِحٌ: اپنے وطن سے دور لوگ۔
 الْمُنْتَزِحَةُ: ذول یا اس کے مانند کوئی چیز جس سے پانی نکالیں۔ ج. منزاح۔
 نَزْرَةٌ (ن) نَزْرًا: سوال کرنے میں اصرار کرنا۔
 جلدی کرنا۔ نَزْرَ الشَّيْءِ: کم سمجھنا۔ فلاناً: حکم دینا۔ حقیر سمجھنا۔ کسی کے پاس جو کچھ ہو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرنا۔ الشَّرَابُ فَلَانًا: بہت کر دینا۔
 نَزَّرَ (ك) نَزْرًا وَ نَزْرَةً وَ نَزَارًا وَ نَزَارَةً وَ نَزْوَرَةً: کم ہونا (نَزْوَرَةً) النَّزْلُ: بے برکت ہونا۔ الثَّقَاةُ: کم دودھ والی ہونا۔

نَزَّرُوا النَّزْرَ: العطاء: کم دینا۔
 تَنَزَّرَ الشَّيْءُ: کم ہونا۔ تَنَزَّرَ مِنَ الشَّيْءِ: کم لینا۔
 النَّزْرُ وَ النَّزِيرُ: بہت کم۔ نَزِيرٌ كَيْ جَمْعُ نَزْرٍ: زَجَلٌ نَزْرًا: بے برکت مرد۔ النَّزْرُ: اونٹنی کے گھن کا درم۔ اور کہا جاتا ہے "مَا جِئْتُ إِلَّا نَزْرًا" تم بہت تاخیر سے آئے۔
 النَّزْرَةُ وَ النَّزْوَرُ: مِنَ الْبَيْسَاءِ: کم پتے یا کم دودھ والی عورت۔ النَّزْوَرُ: کم بولنے والا۔ ہر تھوڑی چیز۔ ج. نَزْرُور۔
 الْمَنْزُورُ: بہت کم۔ اور کہا جاتا ہے "أَعْطَاهُ عَطَاءَ مَنْزُورٍ" اس نے اس کو ایسا عطیہ دیا جس میں بہت اصرار کرنا پڑا "وَعَطَاءٌ غَيْرُ مَنْزُورٍ" اور ایسا عطیہ جس میں اصرار کرنا نہ پڑے۔
 نَزَعَ (ض) نَزْعًا الشَّيْءَ مِنْ مَكَانِهِ: اکھیرنا۔
 الْأَيْمِيُّ الْعَامِلُ: معزول کرنا۔
 بِالسَّهْمِ: حیر پھینکانا۔
 فِي الْقَوْمِ: کمان پھینکانا۔
 عَنِ الْقَوْمِ: کمان سے پھینکانا۔
 الدَّلْوُ وَ بالدَّلْوِ: کھینچنا۔ ذول نکالنا۔
 يَدُهُ: گریبان سے نکالنا۔
 الشَّمْسُ: آفتاب کا مغرب کی طرف جانا۔
 الْمَرِيضُ: بیمار کا قریب الموت ہونا۔
 نَزَعَ (ض) نَزْعًا عَنِ كَذَا: رکنا۔ باز رہنا۔
 الْوَلَدُ أَبَاهُ وَ الْوَالِدُ ابْنَهُ: مشابہ ہونا۔
 نَزَعَ (ف) نَزْعًا مَعْنَى جِيئًا: عمدہ معنی نکالنا۔
 نَزَعَ (ف) نَزْعًا وَ نَزْوَعًا إِلَى أَهْلِهِ: مشتاق ہونا (نَزْعًا) إِلَى الشَّيْءِ: جانا۔ کہا جاتا ہے "لَعْنَةُ نَزْعَةٍ إِلَى كَذَا" اس کو قتل چڑھی طرف میلان ہے۔
 بِلَانٍ إِلَى كَذَا: بلانا: دعوت دینا۔
 نَزَعَ (س) نَزْعًا: کپٹیوں پر سے گھٹا ہونا۔ صفت انزع۔ مؤنث نَزْعَاءُ (مگر یہ مستعمل نہیں بلکہ انزع کی مؤنث زَعْوَاءُ ہے)۔
 نَزَعَ نَزْعًا الْمَرِيضُ: بیمار کا قریب الموت ہونا۔ نَزْعَهُ نَزْعًا وَ مَنَزَاعَةً جَعْلًا: نَزْعَهُ النَّوْبُ: کپڑے سے کھینچنا۔ اور اسی سے ہے "أَرْجِيئُ تَنَازِعَ أَرْضِكُمْ" یعنی میری زمین تمہاری زمین سے متصل ہے۔ نَزَعَ إِلَى أَهْلِهِ: مشتاق ہونا۔ فلاناً: مصافحہ کرنا۔

النَّكَاسُ: پیالہ دینا۔
 نَزَعَ الشَّيْءَ مِنْ مَكَانِهِ: اکھیرنا۔
 انْقَعَ الرَّجُلُ: کپٹیوں پر سے گھٹا ہونا۔
 تَنَزَعَ إِلَيْهِ: دوز کر جانا۔
 تَنَازَعُ الْقَوْمُ: اختلاف کرنا۔ تَنَازَعُوا الشَّيْءَ: باہم کھینچنا۔
 النَّكَاسُ: پیالہ دینا۔
 فِي الشَّيْءِ: جَعْلًا: رکنا۔
 انْقَعَ الشَّيْءُ: اکھیرنا۔
 الشَّيْءُ: اکھیرنا۔
 رَكْنَا: باز رہنا۔ انْقَعَ بِالشَّيْءِ أَوْ الْآيَةِ: شعرا آیت کو بطور شاہد و مثل کے پیش کرنا اور کوئی شخص عمدہ معنی پیش کرے تو کہا جاتا ہے "قَدِ انْقَعَ مَعْنَى جِيئًا"۔
 اِسْتَنْزَعَهُ عَنِ الشَّيْءِ: رک جانے کو کہنا۔ کہا جاتا ہے "رَأَاهُ مَكْبًا عَلَى الشَّيْءِ فَاسْتَنْزَعَهُ" اس نے اس کو برائی میں منہمک دیکھا تو اس سے باز رہنے کو کہا۔
 النَّزْعُ وَ الْبِزَاعُ وَ الْمَنَازَعَةُ وَ نَزَعَ الْحَيَوَةَ: قرب موت کی حالت۔
 الْبِزَاعُ النَّزَاعَةُ وَ الْمَنَازَعَةُ: جَعْلًا خصوصت۔
 النَّزْعَةُ: نَزَعَ كَيْ جَمْعُ: حیر پھینکنے والے اور عرب کے امثال میں سے ہے "عَادَةُ السَّهْمِ إِلَى النَّزْعَةِ" یعنی حق، حق دار کو مل گیا۔ النَّزْعَةُ: کپٹیوں پر بل جھڑ جانے کی جگہ۔ ج. نَزْعَاتُ النَّزْعَةِ: بہاڑی راستہ۔
 النَّزَاعُ: قا۔ مسافر۔ ج. نَزْعَةٌ وَ نَزْعًا وَ نَزْعٌ مؤنث نَزَاعَةٌ: ج. نَوَازِعُ وَ نَزَاعَاتُ: کہا جاتا ہے "مَشَاةُ نَزَاعٍ" یعنی وہ بکری جو بکرے کی طالب ہو۔
 النَّزِيْعُ: مسافر۔ دور۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ نَزِيْعٌ" دور کی جگہ۔ کم گہرا کنوئیں۔ وطن کا مشتاق۔
 لَوْحِي بَحْرٍ: شریف۔ اور ایسا ہی "فَوْشٌ نَزِيْعٌ" اصل گھوڑا۔ ج. نَزَاعٌ: نَزَاعُ الْقَبَائِلِ: ایسی جگہ جو دوسرے قبائل کے پدوس میں رہیں۔
 النَّزِيْعُ: اکھیرنا ہوا۔ لَعْنَةُ نَزِيْعٍ: توڑا ہوا پھل۔
 مؤنث نَزِيْعَةٌ: ج. نَزَايِعُ۔
 النَّزِيْعَةُ مِنَ الْبَيْسَاءِ: وہ عورت جس کی شادی دوسری قوم میں کی گئی ہو۔ وہ عورت جو اپنے

التازہ۔ فا۔ کما جاتا ہے "هُوَ نَزَاهُ النَّفْسِ" وہ پاک دامن ہے۔

الْمُنْتَزَهُ۔ سیرو تفریح کی جگہ۔

نَزَاهُ نَزْوًا نَزْوًا نَزْوًا نَزْوًا نَزْوًا۔ کورتا۔

عَلَيْهِ: کسی پر کرنا اور روندنا — الذِّكْرُ عَلَى الْأُنْثَى: بھتی کرنا۔ اور اسم الیزاء والنزاه اور اس کا استعمال چوپایوں کے لئے ہے۔ نَزَاهُ قَلْبِيَّةٌ اِلٰی كَذَا: شیفٹ و فریٹ ہوتا۔ نَزَاهُ الْخُمْرِ: گدھوں کا چھلنا کورتا۔ نَزَاهُ الْقَطْعَامِ: غلہ کا گراں ہونا — نَزْوًا نَزْوًا: بیچ کر نکل بھاگنا۔

نَزْوَى نَزْوًا نَزْوًا: سارا خون نکل جانا۔ کما جاتا ہے "أَصَابَهُ جُرْحٌ فَنَزْوَى مِنْهُ فَهَاتَتْ" اس کو زخم لگا جس کی وجہ سے سارا خون نکل گیا اور وہ مر گیا۔

نَزَاهُ تَنْزِيَةً وَتَنْزِيًا وَنَزَاهُ انْتِزَاهُ: کورتا بھتی کرنا۔

تَنْزَى تَنْزِيًا اِلٰی الشَّيْءِ: برائی کی طرف جلدی کرنا۔

انْتِزَى انْتِزَاهُ: برائی کی طرف جلدی کرنا۔ کما جاتا ہے "انْتِزَى عَلَى اَرْضٍ كَذَا فَاحْتَدَاهَا" اس نے فلاں زمین کی طرف سبقت کی اور اسے لے لیا۔

الْتِزَاةُ۔ کورتا۔ ہر چھوٹی چیز۔

التازہ۔ التازیہ۔ التازی کا مونس۔ تیزی و تیز روی۔ کم گمراہیالہ۔ اکتہ نازیہ۔ ارد گرد سے بلند ٹیلہ۔ التزی و التزاه و المنتزی۔ بہت اچھل کود والا۔

التزیہ۔ التزی کا مونس۔ بادل۔ کم گمراہیالہ التزیہ: اچانک شوق۔ اچانک مصیبت۔ کھلاڑی کی دھار۔

التزوان۔ تیزی و جوش۔

نَسَّ (ض ن) نَسَا وَنَسِيْنَا النَّاقَةَ: ہانکنا اور ڈانٹنا۔ کما جاتا ہے "كَانَ يَنْشُصُ أَصْحَابَهُمْ" یعنی اپنے ساتھیوں کے پیچھے چل رہا تھا) — نَسَا وَنَسِيْنَا: نَسَا: الْقَوْمَ: پانی پر چنچنا۔

نَسِيْنَا وَنَسُوْنَا: الْخُبْرَ وَاللَّحْمَ: روٹی یا گوشت کا ٹنگ ہونا — فَلَانٌ: جلدی سے ہر کام پر گزرنے والا ہوتا۔

"فَلَانٌ مِنْ رِيَاةِ الشَّيْءِ" فلاں تسم باپ سے ہے۔ التازلہ۔ التازل کا مونس۔ سخت مصیبت ج نازلات و نوازل۔

التزال۔ بہت اترنے والا۔ بہت مقابلہ کرنے والا۔

التزئیل۔ مسمان۔ باہرکت۔ کھانا۔ کما جاتا ہے "قُوْبٌ نَزَيْلٌ" کال کیزاو "فَلَانٌ نَزَيْلِي" فلاں میرے ساتھ گھر میں اترنے والا ہے۔ ج نوزلاء۔ التزئیل۔ مع۔ ترتیب۔ اوپر سے نیچے اترنا۔

التزئول۔ اترنے کی جگہ۔ مکان۔ چشمہ۔ ج متازل۔

التزئولہ۔ اترنے کی جگہ۔ گھر۔ مرتبہ۔ کما جاتا ہے "لَهُ مَنزِلَةٌ عِنْدَ الْأَمِينِ" اس کو امیر کے پاس مرتبہ حاصل ہے و "هُوَ رَفِيعُ الْمَنزِلَةِ" وہ بلند مرتبہ والا ہے۔

نَزْوَى التزئول: سرہانا — الْأُمُّ صَبِيَّهَا: ماں کا بچہ کورتا۔ نچانا۔

نَزَاةُ (ن) نَزَاهَا اِلٰی: اونٹ کو پانی سے دور رکھنا۔

نَزَاةُ (س) وَنَزَاةُ (ك) نَزَاهَةٌ وَنَزَاهَةٌ: برائی سے دور ہونا۔ پاک دامن ہونا — الْمَكَانُ: صحت افزا ہونا۔

نَزَاهَةٌ۔ بری بات سے دور کرنا۔ "نَزَاهَةٌ نَفْسُهُ عَنِ الْقَبِيحِ": اپنے آپ کو گناہ سے پاک رکھنا۔ نَزَاهَةٌ الْمَلَّةُ عَنِ الْمَشْوِيِّ: اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنا۔ نَزَاهَةٌ عَنِ كَذَا: دور ہونا۔ محفوظ ہونا۔ کما جاتا ہے "يَنْتَزَهُ عَنِ الْمَطَامِعِ وَعَنِ مَلَاتِيمِ الْأَخْلَاقِ" وہ لایع اور برے اخلاص سے برتر ہے۔ فَلَانٌ: سیر کو لگانا۔

انْتِزَاهَةٌ عَنِ كَذَا: دور ہونا — فَلَانٌ: سیر و تفریح کو جانا۔

التزہ و التزہ و التزیہ۔ پاک دامن۔ برائیوں سے دور۔ ج نَزَاهَةٌ وَنَزَاهَةٌ: مکان نَزَاهَةٌ وَنَزَاهَةٌ وَنَزَاهَةٌ: لوگوں سے دور جگہ۔ صحت افزا مقام۔

التزہہ۔ اسم ہے نَزَاهَةٌ سے بمعنی سیر و تفریح ج نَزَاهَةٌ: اور کما جاتا ہے "هُوَ يَنْزُهُهُ مِنَ الْمَاءِ" او عن الماء وچالی سے دور ہے۔

التزہ و التزہ: برائی سے دور۔

حَاجَةٌ عَلَى كَرِيمٍ" اس نے اپنی حاجت کریم کے سامنے پیش کی۔ یعنی پوری کرنے کی درخواست کی۔

نَزَاهَةٌ نَزَاةً وَنَزَاةً لَهَا الْحُزْبُ: مقابلہ میں اترنا اور جنگ کرنا اور کما جاتا ہے "حَازَ يَوْمًا بِالنِّزَالِ" دونوں فریق نے اونٹوں سے اتر کر گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگ کی۔

تَنَزَّلَ الْقَوْمُ: اونٹوں سے اتر کر گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگ کرنا۔ میدان جنگ میں اتر کر جنگ کرنا — الْقَوْمُ فِي الشَّفْرِ: کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کھانا۔ اور مولدین کے استعمال میں تَنَزَّلَ التزئول کے معنی درج سے اترنے کے ہیں۔

نَزْوَى: آہستہ آہستہ اترنا — عَنِ الْحَقِّ: حق چھوڑ دینا۔ نَزْوَى فَلَانًا: اتارنا۔

انْتِزَاهَةٌ: اتارنا۔ انْتِزَاهَةٌ عَنِ زَايِهٍ او حَقِيحَةٍ: رائے سے یا حق سے نیچے اترنے کے لیے کما انْتِزَاهَةٌ فَلَانٌ: مرتبہ سے اتاراجانا۔

النزل و النزل۔ کھانا جو مسمان کے سامنے پیش کیا جائے۔ ج انزال۔ النزل: باہرکت کھانا۔ المنتزل: اترنے والے لوگ۔

النزل و النزل و النزال۔ بھتیگی کی بالیدگی اور ستمرائی۔ داد و دہش و فضل۔ النزل: بارش۔ نزل۔ ذُو نَزْوَى: بہت داد و دہش والا۔ باہرکت ج انزال۔ انزال القوم: قوم کی روزیاں۔

النزل۔ جمع شدہ۔ ج نوزول۔

النزل۔ جگہ جہاں بہت اتریں۔ سخت جگہ جہاں سیلاب جلدی آئے۔ کما جاتا ہے مَكَانٌ نَزْوَى الْقَوْلَةُ: نَزْوَى كَمَا مَرَّةً: اور کما جاتا ہے "لَقَدْ زَاةَ نَزْوَىةً أُخْرَى" اس نے اس کو یقیناً دوسری مرتبہ دیکھا۔ زلام نزلہ۔ اَرْضٌ نَزْوَىةً: عمدہ بھتیگی والی زمین۔ اور کما جاتا ہے "تَوَكَّهْتُمْ عَلَى نَزْوَاهِهِمْ وَنَزْوَاهِهِمْ" میں نے ان کو درست حالت میں چھوڑا۔

النزاهة۔ سخت زمین ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی بارش میں بہہ پڑتا۔

النزاهة۔ سبز۔ مسمانی۔ کما جاتا ہے "مَكَانٌ فِي نِزَاةِ فَلَانٍ" ہم فلاں کی مسمالی میں تھے۔ و

النَّسَبُ - منہ - مناسبت - رشتہ دار - صاحب نسب - لطیف شعر عورتوں کے متعلق اور مبالغہ کے لیے "نَسَبَتْ نَسَبًا" کہا جاتا ہے جیسا "شِعْرٌ شَاعِرٌ" (اور فاعل اس موقع پر مفعول کے معنی میں ہے) جِ نَسَبًا وَ نَسَبًا (جیسے شریف و شرفاء) النسابة - رشتہ داری -

النَّسَابُ - جِ نَسَابُونَ وَ النَّسَابَةُ جِ نَسَابَاتٍ - نسب کا علم رکھنے والا - الأَنْسَابُ - اسم تفضیل - اور کہا جاتا ہے "هَذَا الشَّعْرُ أَنْسَابٌ مِنْ ذَاكَ" یہ شعر اس سے زیادہ لطیف ہے - الْمُتَنَسِبُ - فارشتہ دار - مشابہ -

الْمُنْسُوبُ - منہ - شعر منسوب : عشقیہ شعر خَلَقَ مُنْسُوبٌ : مطابق قاعدہ - جِ مَنَابِيبُ - نَسَبَ بَيْنَهُمَا : چٹل خوری کیلئے دو زور و موپ کرنا -

النَّسَبُ - جِوئیوں کی قطار - جِوئیوں کا یا سانپ کا راستہ (- وَ النَّسْبَانُ سِدَاهَا وَحِ رَاسَتِہ -

النَّاسُوتُ - طبیعت انسانی - ناس میں دو اتا کی زیادتی ہوئی ہے جیسے ملکوت میں - نَسَجَ (ن ض) النَّوْبُ : کپڑا بنانا - النَّكْلَامُ : خلاصہ کرنا - آراستہ کرنا - الشَّاعِرُ الشَّعْرُ : نظم کرنا -

الْفَيْضُ النَّبَاتُ : بارش کا نباتات کو بڑھا کر گنجان کرنا - نَسَجَتِ الزَّيْنَةُ الشَّرَابَ وَ الْمَاءَ : لہریں پیدا کرنا - نَسَجَتِ النَّاقَةُ فِي مَنِيرِهَا : اُدنی جاکلہری جلدی قدم اٹھانا -

النَّسَجُ - بنا جانا - النَّسِجُ - منہ - کپڑا بنانا - النَّسِجَةُ - بننے کا پیشہ - النَّسَاجُ - بننے والا - کلام کو آراستہ کرنے والا - جھوٹا -

النَّسِيجُ - بنا ہوا - جِ نَسَجٌ - کہا جاتا ہے "هُوَ نَسِيجٌ وَ حَذَقٌ" وہ صفات محمودہ میں بے نظیر و لامتناہی ہے - النَّسِيجُ : جائے نمازیں -

اسْتَنْسَأَ عَرْنَمَةً : قرض خواہ سے ادائیگی قرض کی مصلحت مانگنا -

النَّاسِيَةُ - فَا - مَوَاتَا (حیوان یا انسان) جِ نَسَاءَةٌ -

النَّسَاءُ - درازی عمر - النَّسَاءُ - منہ - لسی - بہت پانی والا دودھ - عقل زائل کرنے والی شراب - مَوَاتَا مَوَاتَا کے ابتدا - النَّسَاءُ - گھل مل کر رہنے والا آدمی -

النَّسَاءُ وَ النَّسِيفَةُ - تاخیر - کہا جاتا ہے بَاعَةُ النَّسِيفَةِ اس نے ادھاری بیچا - النَّسِيفُ - تاخیر - بہت پانی ملا ہوا دودھ -

الْمُنْسَاءُ وَ الْمُنْسَاءَةُ وَ الْمُنْسَاءَةُ - چرواہے کا ڈنڈا - کہا جاتا ہے "إِنَّ لِي عَنكَ لِمُنْسَأًا" میرے لیے تمہاری طرف سے گنجائش ہے -

نَسَبَ (ن ض) نَسَبًا وَ نَسَبَةَ الرَّجُلِ : نسب بیان کرنا - دریاخت کرنا - نَسَبَهُ إِلَى فَلَانٍ : نسبت کرنا (- نَسَبًا وَ نَسَبًا وَ نَسَبًا) الشَّاعِرُ بِالْمَرْأَةِ : تشبیہ کرنا - غزل میں عورتوں کے اوصاف بیان کرنا -

نَسَبَهُ مُنَسَبَةً - مشابہ ہونا - مناسب ہونا - نسب میں شریک ہونا -

تَنَسَّبَ الرَّجُلُ الْيَتِيمَ : ہم نسب ہونے کا دعویٰ کرنا - اور اسی سے مثل ہے "الْقَرِيبُ مَنْ تَقَرَّبَ لَاهُ تَنَسَّبَ" قریب وہ ہے جو دوستی سے قریب کرے نہ وہ جو محض دعویٰ ہم نسبی کرے -

تَنَسَّبَتَا : ہا ہم مشابہ ہونا - تَنَسَّبَ الْقَوْمُ إِلَى أَحْسَابِهِمْ : منسوب ہونا -

إِنْتَسَبَ الرَّجُلُ : نسب ظاہر کرنا - نسب ذکر کرنا - إِلَى أَبِيهِ : منسوب ہونا -

اسْتَنْسَبَ : نسب بیان کرنا - الرَّجُلُ : نسب بیان کرنے کو کہا -

النَّسَبُ - منہ - قربت - رشتہ داری - جِ أَنْسَابُ -

النَّسَبَةُ وَ النَّسْبَةُ - قربت - دو چیزوں کے درمیان ربط و تعلق - اعداد کے درمیان نسبت مثلاً کہا جائے کہ چار کو آٹھ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو پانچ کو دس کے ساتھ - اور کہا جاتا ہے "بِالنَّسْبَةِ إِلَى كَذَا" یعنی فلاں چیز کے لحاظ سے -

نَسَّ (ض) نَسْمًا مِنَ الْخَطْبِ : کڑی سے پلنے میں دوسری جانب پانی لگنا - لِفُلَانٍ : حقیقت حال سے واقف ہونا -

نَسَسَ الْمَاضِيَةَ : جانور کو چلانا - النَّسِيءُ : بچے کو پیشاب یا پاستمانہ کرانے کے لیے اس اس کہا -

أَنَسَ الدَّابَّةَ : چوپایہ کو پیاسا کرنا - تَنَسَّسَ وَنَهُ الْأَخْيَارَ : سُن گن لینا - خردوار ہونے کی کوشش کرنا -

النَّاشُ - فَاشْحِيظُ نَاشٌ : خشک روٹی -

التَّيْسُ - منہ - ہانکا ہوا - تخت بھوک - پوری کوشش - کڑی کے جھاگ جو پلنے کی حالت میں دوسرے سرے پر نکلے - جِ نَسَسَ (- وَ التَّيْسِيَّةُ) طبیعت - التَّيْسُ : جسم میں بقیہ روح - کہا جاتا ہے "بَلَغَ مِنْهُ نَيْسُهُ وَ نَيْسِيَّتُهُ" یعنی مرے لگا تئیسیتہ : چٹل خوری - تری جو چٹلی کڑی کے پچھلے سرے پر ظاہر ہو - جِ نَسَائِسُ -

النَّسَسُ - روی جڑیں - النَّسَّاسُ - منہ - تیز چال -

الْمُنْسَاءُ وَ الْمُنْسَاءُ - لاشی - نَسَا (ن ض) نَسْمًا مِنَ الدَّابَّةِ : چوپایہ کو ڈانٹنا اور ہانکنا - حوض سے بنانا - اللَّيْنُ بِالْمَاءِ : دودھ میں پانی ملانا - هُ : لسی پانا - نَسَاتِ الْمَاضِيَةَ : مَوَاتَا ظاہر ہونا (- نَسَا وَ مَنَسَاءَةُ الشَّيْءِ : مَوْخَرُكَرَا : کہا جاتا ہے "نَسَا اللَّهُ أَجَلَهُ وَ فِي أَجَلِهِ" مہلت دینا - عَمْرُو رَاكَرَا - فَلَانًا : نگہبانی کرنا - حَفَاكَرَا : هُ النَّبِيْعُ وَ فِي النَّبِيْعِ : بیچنا اور ادائیگی قیمت کی مہلت دینا - نَسَاءَةً عَنْ فَلَانٍ دَيْتَهُ : ادائیگی قرض کے لیے مہلت دینا -

النَّسَاءُ نَسَاءَةَ الشَّيْءِ : مَوْخَرُكَرَا : کہا جاتا ہے "أَنَسَا اللَّهُ أَجَلَهُ وَ فِي أَجَلِهِ" عَمْرُو رَاكَرَا - هُ النَّبِيْعُ وَ فِي النَّبِيْعِ : بیچنا اور ادائیگی قیمت کی مہلت دینا - عَنَّةٌ : بیچے ہونا - دُورُكَرَا : نَسَا تَنَسِيفَةً : ڈانٹ کرنا -

إِنْتَسَا عَنَّةً : بیچے ہونا - إِنْتَسَاتِ الْإِبِلِ فِي الْمَرْعَى : اُوٹوں کا چراگاہ میں دور ہونا -

یا شمالی میں داخل ہونا۔
اِنْتَسَفَتِ الْاِبِلُ: اونٹوں کا چراگاہ میں متفرق ہونا۔

التاسع۔ فاء۔ لمی گردن۔

النسج۔ ہاتھ کا جوڑ۔ کجاہ کئے کی چوڑی رتی یا

تسم۔ اس کے ایک ٹکڑے کو البسعة کہتے ہیں۔

ج نسج و نسع و نسوع و انساع و انساع
الظریق: راستے کے وہ گڑھے جو چھاپیوں کی

ناگھوں سے پڑ جائیں۔

النسج و الریح البسعیة و المنسج یا شمالی۔
النسج ع۔ مم۔ لبائی۔

المنسعة۔ زمین جس کی پیداوار لمبی لمبی ہو۔

نسخ (ف) نسفاً اللبن بالماء: دودھ میں

پانی ملانا۔ نسفاً بالسوط: جاک مارنا۔

هه بكذا: تسمت لگانا۔ هه بكلمة: طعن و تشنیع

کرتا۔

— الخیزة: روٹی پر لوہے سے یا کسی اور چیز

سے گودنا۔ نسفت الواضحة بالابرة: گودنے

دایلی عورت کا سونے چھوٹا۔ فی الارض: جانا۔

نسفت و نسفت الامتنان: دانتوں کا ہلنا۔

دانتوں کی جڑوں کا ڈھیلا ہو جانا۔ نسفت

الشجرة: درخت کا کاٹنے کے بعد پھر اگنا۔ و

نشفة: نیزہ مارنا۔

انسفت الشجرة: درخت کا کاٹنے کے بعد

پھر اگنا۔ الفسيلة: درخت کے پودے کا نرم

حصہ کو ٹکانا۔ هه: نیزہ مارنا۔ هه بالسوط:

جاک مارنا۔

انسفت الابل: اونٹوں کا چراگاہ میں متفرق

ہونا۔ الرجبل: سوچ بچار کرنا۔

التاسع۔ فاء۔ لمی گردن۔

نفسر۔ گدھوں کا شکار کرنا۔ الحبل: رتی کا

ٹوٹا۔ الخوخ: زخم کا ٹوٹ جانا اور پیپ وغیرہ

پر جانا۔ القوب و نخوة: کپڑے کا ٹھس ٹھس

کے پھٹنا۔ نفسرت البعثة عن فلان: متفرق

ہونا۔

انسفر طرف الحبل: رتی کے کنارے کا

ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔

انسفسر القلائد: قوت میں گدھ جیسا ہونا اور

اسی سے مثل ہے "ان البقات باذیننا

ینسفسر بغات" (ایک چھوٹے سے پرندہ کا نام)

ہماری زمین میں گدھ ہو جاتا ہے یعنی کمزور قوی ہو

جاتا ہے۔

النسر۔ بتثلیث النون والفتح اشهر

وافصح گدھ۔ اس کی کنیت ابو الابرید و ابو

الاضبع و ابو مالک و ابو المنہال و ابو یحییٰ

ہے۔ اور مادہ گدھ کی کنیت "أم قشعم" ج نسور

و انسر و نسا۔

النسور۔ گھوڑے کے سم کے اندرونی حصہ میں

نوردوج نسور۔ النسران: دو ستارے جن میں

سے ایک کو نسر طائر اور دوسرے کو نسر واقع کہتے

ہیں۔

الناسور۔ ناسور۔ زخم جس سے ہمیشہ مواد بہتا

رہے۔ ج نوایسیر۔

النسارية۔ عقاب۔

المنسر و المنسر۔ شکاری پرندہ کی چونچ

المنسر و المنسر: لشکر کا ایک حصہ جو بڑے

لشکر کے آگے آگے چلے۔ تیس سے چالیس تک یا

چالیس سے پچاس یا ساٹھ تک یا سو سے دو سو تک

گھوڑوں کا گدھ۔ ج مناسیر۔

النسورین۔ گل سیوتی و واحد نسورینة۔

نسط (ن) نسطاً القوب: کپڑے کو تر کر کے

نچڑانا۔

النسط۔ وہ لوگ جو پیدائش کے دشوار ہونے

کے وقت بچے کو باہر نکال لیں۔

نسعت (ف) نسفاً و نسوعاً و نسفت

الامتنان: ڈھیلے مسوزھوں والا ہونا۔ نسع فلان

فی الارض: جانا۔ نسوعاً الشئی: لمبا ہونا۔

انسع الرجل: پڑوسیوں کیلئے ایذا رسا ہونا۔

التسبیحة۔ نسج کامونٹ۔ ج نسماج۔

المنسج و المنسج۔ بننے کا کرک۔ المنسج

و المنسج من الدابة: چوپایہ کی گردن کی بڑ

سے موڑھوں تک اٹھی ہوئی جگہ۔

المنسج و المنسج۔ کرک۔

نسخ (س) نسفاً لاج کرنا۔

نسخ (ف) نسفاً الثراب: مٹی کا بھیرنا۔

النسخ و النسخ۔ گھوڑوں کا کوزا کرکٹ۔

المنساح۔ غبار اڑانے کا آلہ۔

نسخ (ف) نسفاً الشئی: زائل کرنا۔ باطل

کرنا۔ مٹانا۔ الکتاب: نقل کرنا۔

نأسخه فأنأسخه: ایک دوسرے کو محو کرنا۔

نأسخا۔ ایک دوسرے کو محو کرنا۔ نأسخوا

الشئی ہاتھوں ہاتھ لینا۔ ایک دوسرے کے پیچھے

آنا۔ نأسخت الأزيمة: پے در پے آنا۔

نأسخ الوزفة: تقسیم میراث سے پہلے بعض

وارثوں کا مرجنا۔

انسسخ الشئی: زائل کرنا۔ الکتاب:

نقل کرنا۔ الشئی الشئی: کسی چیز کا کسی چیز

کے قائم مقام ہونا۔

انسسخ الشئی: بمعنی نسخہ لکھنے کو کہنا۔

بلدة تسبیحة و نسجیة۔ دور کا شہر۔

النسخة۔ کتاب نقل کی ہوئی۔ کتاب جس

سے نقل کی جائے۔ ج نسخ۔ کہا جاتا ہے "کتاب

القاضی نسختین یحکمہ" قاضی نے اپنے

فیصلے کی دو کاپیاں کیں۔

الناسخ۔ فاء۔ کتابوں کا نقل کرنے والا۔

التناسخ۔ مم۔ آواگون۔ زوج کا ایک بدن

سے دوسرے بدن میں منتقل اور اس کو تقمص

ہونا بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس کا اعتقاد

رکھتے ہیں وہ "نأسخہ" کہلاتے ہیں۔ نأسخ

الأزيمة و القزون: زمانہ کا یکے بعد دیگرے آنا۔

نسرة (ن) نسرا۔ عتہ: آتارنا۔ اوسیرنا۔

الجوخ اللحم: شگاف کر دینا۔ الرجبل:

تسمت لگانا۔ بدگوئی کرنا۔

نسوة (ض ن) نسوا۔ البازی: باز کا چونچ

سے نونچنا۔

نسر الحبل: رتی کا ٹکڑا کرنا۔ توڑ دینا۔

النَّشِيءُ: بادل کا وہ حصہ جو پہلے ظاہر ہو۔
النَّشَاةُ وَالتَّشْيِيقَةُ: نباتات کی نازک
کوئٹلیں۔ التَّشْيِيقَةُ: بمعنی التَّاشِيقَةُ۔
النَّاشِي: فا۔ جوانی کے قریب پہنچا ہوا لڑکا یا
لڑکی۔ ج: نَشٌّ نَشَأُو نَشَأَةٌ (خلاف تِياس) ہر
وہ چیز جو رات کو ظاہر ہو۔ ج: نَوَاشِي۔
التَّاشِيقَةُ: ناشی کامونٹ۔ دن کا ابتدائی حصہ۔
رات کے ابتدائی اوقات۔ سونے کے بعد اٹھنا۔
نوجوان لڑکی۔ ج: نَوَاشِي۔
الْمَنْشَأُ: پید ا ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے
”مَوْلِدُنِي وَمَنْشَأِي فِي نَيْسِ فَلَانٍ“
الْمَنْشَأُ وَالْمَنْشَأُ: بلند جھڑا۔ بلند نشان
راہ۔

نَشِبَ (س) نَشِبًا وَنَشُوبًا وَنَشِيَةً الشَّيْءُ
فِي الشَّيْءِ: چمٹنا — الْعَظْمُ فِي حَلْفِهِ: حلق
میں بڑی چمٹنا۔ کہا جاتا ہے ”نَشِبَ فَلَانٌ
مَنْشَبَ سَوْءٍ“ فلاں ایسی چیز میں پھنس گیا جس
سے رہائی ممکن نہیں ”وَمَا نَشِبْتَ الْفَعْلُ
كَذَا“: یعنی میں ہمیشہ ایسا کرتا رہا ”وَلَمْ يَنْشَبْ
أَنِّي مَاتَ“: یعنی وہ فوراً ہی مر گیا (— نَشُوبًا)
الْحَزْبُ بَيْنَ الْقَوْمِ: گھسان کی جنگ ہونا —
الْأَمْرُ فَلَانًا: لازم ہونا — فِيهِ: خریدنا۔
نَشِبُوْهُ وَانْشَبُوْهُ فِي كَذَا: چمٹانا۔ چپا کرنا۔ کہا
جاتا ہے ”انْشَبَ النَّازِي مَخَالِيقَهُ فِي
الْأَجْنَدَةِ“ باز نے چنگل نکال کر چپا کرنا۔
انْشَبَ الصَّائِدُ: شکاری نے شکار کو جال میں
چسپا کیا۔

الرَّيْحُ: ہوا کا تیز ہونا اور رکڑی وغیرہ اڑانا۔
نَاشِيَةٌ مَنَاشِيَةٌ الْحَزْبُ: کھلم کھلا جنگ کرنا۔
تَنْشَبُ فِيهِ: چمٹنا۔ کہا جاتا ہے ”تَنْشَبُ فِي
قَلْبِهِ حُبُّ فَلَانٍ“ اس کے دل میں فلاں کی محبت
بیوست ہو گئی۔
انْشَبَ فِيهِ: چمٹنا — الْحَطَبُ: کڑوی جمع
کرنا۔

تَنَاشَبُوا: بعض کا بعض کے ساتھ چمٹنا۔ کہا جاتا
ہے ”تَنَاشَبُوا حَزْبَ الرُّسُولِ“ لوگوں نے
رسول کے ارد گرد بھیر لگائی۔
النَّشَبُ: مع۔ (— وَالتَّشْبِيَةُ) جائیداد غیر

معتولہ۔ مال و مویشی۔ التَّشْبُ: ایک درخت کا نام
جس سے کما میں بنائی جاتی ہیں۔

النَّشْبَةُ: مع۔ (— وَالتَّشْبَةُ) کام میں پھنس کر
رہائی نہ پانے والا مرد۔
نَشْبَةٌ: بھیر یا کالم جمش۔
النَّشَابُ: تیر۔ واحد نَشَابَةٌ۔ ج: نَشَابِيْبُ۔
النَّاشِبُ: فا۔ تیروں والا۔ تیر انداز۔
النَّاشِبَةُ: ناشب کامونٹ۔ تیر انداز لوگ۔
النَّشِبُ: چمٹنے والا۔
النَّشَابُ: بہت چمٹنے والا۔ تیر سازو تیر انداز۔ کہا
جاتا ہے ”رَجُلٌ نَشَابٌ“ تیر انداز مرد۔ قَوْمٌ
نَشَابَةٌ: تیر انداز لوگ۔

الْمَنْشَبُ: چمٹنے کی جگہ۔
الْمَنْشَبَةُ: مال مویشی۔ کہا جاتا ہے نَزِدٌ مَنَشَبٌ۔
تیر کی مانند نقش و نگار والی چادر۔
نَشَجَ (ض) نَشَجًا وَنَشِيحًا النَّاسِي: روتے
روتے پھل لگنا۔ نَشَجَتِ الْقَدْرُ: ہانڈی کا کھد
کھدانا نَشَجَ الضَّفْدَعُ: میزک کا راتے وقت
آواز دہرانا — الْمُنْظَرُ: گویے کا دطرز کے
سروں کے درمیان فصل کرنا اور چھیننا۔
النَّشَجُ: پانی بننے کی جگہ۔ ج: انْشَاجُ۔
النَّشِيحُ: مع۔ آواز۔
عَبْرَةٌ نَشَجٌ: آنسو کہ جس کے ساتھ آواز بھی

ہو۔
نَشَجَ (ف) نَشَجًا وَنَشُوحًا الرَّجُلُ: سیرابی
سے کم پینا۔ سیر ہو کر پینا۔
النَّشُوحُ: تھوڑا پانی۔

النَّشُوحُ: مست لوگ۔ واحد نَشُوحٌ۔
النَّشَاحُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ: بھر کر چمٹنے والا برتن۔
نَشَدَ (ن) ض) نَشَدًا وَنَشْدَانًا وَنَشْدَةً
الصَّلَاةُ: گم شدہ کو ڈھونڈنا۔ تلاش کرنا۔ گم شدہ
کی تشہیر کرنا — فَلَانًا: پچھانا — هُوَ اللَّهُ وَبِاللَّهِ:
قسم دینا — نَشَدًا الرَّجُلُ: کسی سے اَنْشَدَلَهُ:
اللَّهُ کہا۔ اور کہا جاتا ہے ”نَشَدْتُكَ اللَّهُ الْإِلَهَ
فَعَلَّتْ“ اس سے مقصد یہ ہے کہ میں نے تم سے
کوئی چیز طلب نہیں کی سوائے اس کے کہ تم یہ کرو
و”نَشَدَةُ عَهْدَةٍ أَوْ وَعْدَةٍ“ اس نے اس کو وعدہ
یاد دلایا۔

أَنْشَدَ الصَّلَاةَ: گم شدہ کے متعلق پوچھنا پوچھ
کرنا۔ گم شدہ کی تشہیر کرنا۔ اَنْشَدَهُ الشَّعْرُ: شعر
پڑھنا۔ اَنْشَدَ بِالْقَوْمِ: بھوکرنا — زَيْدًا وَزَيْدًا:
جواب دینا۔ کہا جاتا ہے ”نَشَدْتُهُ فَأَنْشَدَنِي أَوْ
أَنْشَدَنِي“ میں نے اس سے پوچھا اس نے
جواب دیا۔

نَاشِدَةٌ مَنَاشِدَةٌ وَنَشَادًا: قسم کھلانا۔ نَاشِدَةٌ
الْأَمْرُ وَفِي الْأَمْرِ: متوجہ کرنا۔
تَنْشُدُ الْأَخْبَارَ: اطلاع دینا۔
تَنَاشَدُوا: الْأَشْعَارَ: ایک دوسرے کے
سامنے شعر پڑھنا۔

اسْتَنْشَدَهُ الشَّعْرُ: شعر پڑھنے کو کہا۔ کہا جاتا
ہے نَشَدْتُكَ وَنَشَدْتُكَ اللَّهُ الْإِلَهَ الْفَعَلْتُ: یعنی میں تم
کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اللہ کی قسم دے کر تم
سے کہتا ہوں کہ تم یہ کرو۔

النَّاشِدُ: فا۔ طلب کرنے والا۔ تشہیر کرنے والا۔
النَّاشِدُونَ: گم شدہ کو تلاش کر کے مالک تک
پہنچانے والے۔
النَّشِدَةُ: مع۔ آواز۔

التَّشِيدُ: آواز کی بلندی (— وَالتَّشِيدَةُ ج
نَشَائِدُ وَالنَّشُوْدَةُ ج: اَنَاشِيدُ: شعر جس کو
ایک دوسرے کے سامنے پڑھیں۔ نَشِيدٌ
الْأَنْشَادُ بِأَيْلِ كِي: ایک کتاب۔

النَّشَادُ: گم شدہ کو تلاش کرنے والا۔
النَّشَادُ وَالنَّشَادُ: نوسادر (دخول)
نَشَرُ (ض ن) نَشَرًا الْقَوْبُ: پھیلاتا —
الْخَبْرُ: افشا کرنا — النَّشِيُّ: کھیرنا —
الْخَشْبُ: چرنا — عَنِ الْمَجْحُونِ أَوْ
الْمَرِيضِ: متر پھونکنا۔ نَشَرَتِ الرِّيحُ: بادل
والے دن میں ہوا چلانا۔

نَشَرْنَا نَشُورًا الشَّجَرُ: پتے نکالنا۔
نَشَرَتِ أَوْزَانِي الشَّجَرَةَ: پتوں کا بڑھنا اور
پھیلنا — الْأَرْضُ: ابر ہاری کے بعد سرسبز
ہونا۔

نَشَرْنَا نَشُورًا اللَّهُ الْمَوْتِي: زندہ
کرنا۔ نَشَرُ وَنَشِرُ الْمَوْتِي: زندہ ہونا۔ صفت
نَاشِرُونَ۔
نَشَرْتُ (س) نَشَرًا الْمَوَاشِي: رات میں

نکلتا — فلانًا نيزه مارا — عن بلبه: شہر
مکن سے علیحدہ ہونا۔ نَشِصَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ
زَوْجِهَا: عورت کا نافرمان ہونا۔ بغض رکھنا۔
صفت ناشیص۔

النَّشْصَةُ عَنْ بَلْبِهِ او بَيْتِهِ: شہر سے یا گھر سے
نکال دینا۔

نَشِصَةُ بَلْدِكُمْ: بلد کرنا۔

تَنَشَّصَ لِكُلِّهَا: اٹھنا اور تیار کرنا۔

اِنْتَشَشَ الشَّجَرَةَ: درخت کو جڑ سے
اکیرنا۔

اِسْتَنْشَصَتِ الزَّيْبِجَ السَّحَابَ: ہوا کا بادل
کو اٹھانا۔

النِّشَاصُ وَالنَّشَاصُ: بلند و پست بادل۔ لنگر۔
ج نَشِصَ وَنَشَاصَ:

التَّشْوِصُ وَالتَّشْيِصُ: کھڑا کیا ہوا نیزہ۔ بلند
کو بان والی اونٹنی۔

نَشِطَ (س) نَشَاطًا: ہشاش بشاش ہونا —
فِي عَمَلِهِ او اِلَى عَمَلِهِ: پھر تلا و جست ہونا۔

صفت نَاشِطٌ وَنَشِيطٌ: نَشِطَتِ الدَّابَّةُ: موٹا
ہونا۔

نَشِطَ (ض) نَشِطًا مِنَ الْمَكَانِ: نکلتا۔ مِنْ
بَلَدٍ اِلَى بَلَدٍ: عبور کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَشِطَ بِهِمْ
الْكَلْبِيُّ" راستہ ان لوگوں کو دس گامیں گزیرے
گیا۔

نَشِطَ (ن) نَشِطًا الْحَبْلَ: رستی میں گرہ دینا
— الْعُقْدَةُ: گرہ کو مضبوط کرنا — الدَّلْوُ مِنَ
الْبَيْتِ: بغیر چرخی کے ڈول نکالنا — زَيْدًا: نیزہ
مارنا۔ نَشِطَةُ الْحَيَّةِ: سانپ کا ڈنڈا۔

نَشِطَ الْحَبْلَ: رستی میں گرہ دینا — اِلَى او
فِي الْعَمَلِ: جست ہانا۔ جرات دلانا۔

اَنْشَطَهُ: جست ہانا۔ اَنْشَطَ الرَّجُلُ: جست
لوگوں یا جانوروں والا ہونا۔ اَنْشَطَتِ الْحَيَّةُ
سَانِپَ كَاوَسَا: اَنْشَطَ الْحَبْلَ: رستی میں گرہ دینا

— الْعُقْدَةُ او الْعُقَالُ: گرہ کھولنا — التَّجْوِيزُ
مِنْ عِقَالِهِ: اونٹ کو رہا کرنا۔ چھوڑنا — الْكَلَا
الدَّابَّةُ: موٹا کرنا۔

تَنَشَّطَ: ہشاش بشاش ہونا — لِلْعَمَلِ تَار
ہونا اور جست ہو کر متوجہ ہونا۔ "تَنَشَّطَتِ

دار لکڑی جس سے گیہوں وغیرہ کو بھوسے سے
علیحدہ کرتے ہیں۔ ایک سمندری مچھلی جس کو ابُو
مِنْشَارٌ بھی کہتے ہیں۔

الْمَنْشُورُ: سف۔ کھلا ہوا شاہی فرمان۔
الْمَنْشَرُ: صدر یہی۔ کپڑا وغیرہ پھیلانے کی
جگہ۔

الْمَنْشُورَةُ: الْمَنْشُورُ کا سونٹ۔ حتی و شریف
عورت۔

الْبِشُورُ: جانوروں کا صلب۔
نَشَرَ (ض) نَشْرًا: نَشَرَ اَفْنَى او عَنْ مَكَانِهِ: بلند ہونا
— الرَّجُلُ: بیٹھے ہوئے سے اٹھنا۔ اونچی جگہ میں
جھانکنا — الْقَوْمُ فِي مَجْلِسِهِمْ: ساتھیوں کے
لیے سنا۔ اِنَّهُ كَهْرًا هُوَا: نَشَرَتْ نَفْسُهُ:
گھبراہٹ سے دل دھڑکانا۔

نَشَرَتْ (ن) نَشْرًا الْمَرْأَةُ بِرُؤُوسِهَا وَ
مِنْهُ وَعَلَيْهِ: بیوی کا نافرمان ہونا۔ نفرت کرنا۔ بغض
رکھنا۔ صفت نَاشِرٌ وَنَاشِرَةٌ: ج نَاشِرٌ: نَشَرَ
بَعْلَهَا عَلَيْهَا وَ مِنْهَا: شوہر کا ظلم کرنا۔ سختی کرنا۔

تَكَلَّفَ دِينًا — بِالْقَوْمِ فِي الْخُصُومَةِ: قوم کے
ساتھ جھگڑا کرنے کیلئے اٹھ کھڑا ہونا۔

نَشَرَ (ض) نَشْرًا يَقْوِيهِ: سینگ سے اٹھا کر
پھینک دینا۔

اَنْشَرَ الشَّيْءَ: جگہ سے نمایاں کر دینا۔ بلند کرنا۔
اللَّهُ عِظَامَ الْمَيِّتِ: مردوں کی ہڈیوں کو اٹھا کر
ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا۔

النَّشْرُ: مہ — ج نَشْرٌ وَالتَّشْرُجُ نِشَارٌ
وَالتَّشَارُ: بلند جگہ — مِنَ الرَّجَالِ: قوی۔
مضبوط۔ بوسے ڈل ڈول کا موٹا۔

النَّشَارُ: بلند جگہ۔
النَّاشِرُ: فا۔ جگہ سے ابھرا ہوا۔ نمایاں۔ عِزْقٌ
فَاشِرٌ: مرض وغیرہ کی وجہ سے ابھری ہوئی اور
دھڑکنے والی رگ۔

التَّشْيِيزَةُ وَالتَّشْرَةُ مِنَ الدَّوَابِّ: سواری جس
کی پیٹھ پر زمین یا سوار ٹھہرنے کے۔

نَشِصَ (ض) نَشِصًا: نَشِصًا السَّحَابَ: بادل کا
بلد ہونا — النَّفْسُ: دھڑکانا — الصُّوْفُ او
الشَّعْرُ: اون یا بال کا نکلتا اور کھال سے چٹا ہوا
ہونا۔ نَشِصَتِ الْبَيْتَ: لہبا ہونا۔ نَشِصَ الشَّيْءَ:

چرنے کیلئے پھیلانا۔ خارش والے ہونا۔
نَشَرَ الْقَوْبَ وَنَحْوَهُ: کپڑا پھیلانا — عَنِ
الْمَرِيضِ او الْمَجْنُونِ: بیمار یا دیوانہ پر منتر
پھونکنا۔

اَنْشَرَ اللَّهُ الْمَيِّتَ: مردہ کو زندہ کرنا —
الْأَرْضَ: زمین کو پانی ڈال کر قابل زراعت بنانا
— الرَّجُلُ: ندی نکالنا۔

تَنَشَّرَ الشَّيْءُ: پھیلانا۔
اِنْتَشَرَ الشَّيْءُ: پھیلانا — التَّهَازُ: دن چڑھنا
— الْعَبِيْرُ: خبر کا فاش ہونا — الْاِبِلُ: اونٹوں کا
مترق ہونا — الرَّجُلُ: سفر شروع کرنا۔

تَنَاشَرُوا: الْبَيْتَابُ: کپڑوں کو باہم مل کے
پھیلانا۔

اِسْتَنْشَرَ الْعَجِيْرَ: خبر پھیلانے کو کہنا۔
اَلنَّشْرُ: مہ۔ عمدہ خوشبو یا بو۔ کہا جاتا ہے "لَهُ
نَشْرٌ طَيِّبٌ" اس کی اچھی خوشبو ہے۔ اگنے کی
ابتدا۔ خارش۔

النَّشْرُ وَالتَّشْرُ: بغیر سردار کے منتشر لوگ۔ کہا
جاتا ہے "جَاءُوا نَشْرًا او نَشْرًا" لوگ مترق ہو
کر آئے۔ النَّشْرُ: پھیلانا ہوا۔ کہا جاتا ہے "اللَّهُمَّ
اِصْنُمْ نَشْرِي" اے اللہ میرے مترق امور کو
جمع کر دے۔

النَّشْرُ وَالتَّشْرُ: مہ یومُ النَّشْرِ وَ يَوْمُ
النَّشْرِ قِيَامَتِ كَادُنِ۔
النَّشْرَةُ: نَشْرٌ کا اسم مرہ۔ بلونیم، اشہار۔
(مولدہ) ج نَشْرَاتُ۔

النَّشْرَةُ: افسوں۔ منتر۔
النَّشَارَةُ: لکڑی کا برادہ جو آہہ کرتے وقت
گرے۔

النَّاشِرَةُ: النَّاشِرُ کا سونٹ۔ نَوَاشِرٌ كَاوَادِ
نَوَاشِرٌ ہاتھ کے رگ پیٹھے کو کہتے ہیں۔

النَّشُورُ مِنَ الرَّيَاحِ: بادل اٹھانے والی
ہوا میں۔ ج نَشُورُ۔

النَّشِيْرُ: ازار۔ تہہ بند۔ کٹ کر جمع کی ہوئی
کھیتی۔

النَّشَائِرُ: بچوں کے سر مشق (جمع ہے) اس کا
واحد نہیں)

الْمِنْشَارُ: آہہ۔ ج مَنَاشِيْرُ۔ الْمِنْشَارُ: پیچہ

نشط

الثَّاقِفَةُ فِي سَبِيحِهَا: حَمْرٌ دَوْرًا - تَنْشَطُ الْمَقَارِفَةُ: بَيَانٌ كَوَجُورِهَا - اِنْتَشَطَ الْحَبْلُ: رَتِي كَوَهْلِي كَيْلِي كَيْبِيَا - الْحَبْلُ: رَتِي كَاكَلَا - التَّنَشِيظَةُ: بِلَا قَصْدٍ اِرَادَةِ كِهَاتِهِ لَكِي هَوِي اَوْتُو كُو بَاكَلَا - السَّمَكَةُ: مَجْمَلِي كِه سَنِي اَتَارَا - الشَّيْءُ: مَجْمِيَا مَضْبُوطٌ كَرَا - فَلَا نَا اِلَى كَذَا: كَيْبِيَا بَلَدِ كَرَا - اِنْتَشَطَتِ الْحَيَّةُ: فَلَا نَا: سَاكِبٌ كَا وُنَا - اِسْتَنْشَطَ الْجِلْدُ: كَمَالٌ كَا سَكْرَا - حَمْرِي دَارِ هُوَا - التَّنَشُطُ: مَعِ جَلْدِي اَوْرِي تِيْرِي كِه سَاكِبِ وُنَك مَارَا - التَّنَاشِطُ: فَاجِسْتٌ - مَجْرِيَا - جِيكِي مَلِ جَوَا اِيكِي جِيكِي سِه دُوسْرِي جِيكِي مَجْرِيَا - طَلِيْقٌ نَاشِطٌ: بِيْرِي سُرُكِي سِه دَا مِيْنِ نَكَلَا هُوَا رَا سِه - التَّنَاشِطَةُ: التَّنَاشِطُ كَا مَوْثُجٌ نَاشِطَاتٌ وَ نَوَاشِطٌ - وَ التَّنَاشِطُ مِنَ الْمَسَائِلِ: بِيْرِي مَسْئَلِي سِه نَكَلِي هُوِي مَسْأَلِ وَا حِدَا سِ كَا نَاشِطٌ هُوَا - التَّنَشِيظُ: جِسْتٌ مَجْرِيَا - جِسْتٌ اِلَى وِعْمَالِ وَا اِلَا يَاجِسْتٌ جَانُوْرُوْرٍ وَا اِلَا جِ نَاشِطُو نَاشِطِي - التَّنَشُوْطُ: اِيكِي قِسْمِي كِه مَجْمَلِي - يَنْوُشُوْطُ: مَجْرَا كِنُوَا - يَنْوُشُوْطُ وَا نَاشِطُو - كَمِ كَمْرَا كِنُوَا سِه دُوْرٍ اِيكِي هِي دَعْدِي كِه كَيْبِيِي مِيْنِ نَكَلِي آئِي - التَّنَشِيظَةُ: التَّنَشِيظُ كَا مَوْثُجٌ - مَالٌ قِيْمَتِ جُو غَا زِيُو كُو رَا سِه مِيْنِ هَاتِهِ لَكِي جَانِي جُو بِلَا قَصْدٍ اِرَادَةِ كِه هَاتِهِ لَكِي جَانِي اَوْرَا كِي جَانِي - الْاَنْشُوْطَةُ: كَرِهٌ جِسْ كَا كُوْرَا اَسْمَانِ هُوَا - كَمَا جَانَا هُوَا "مَاعِيْعَالُكَ بِاَنْشُوْطَةٍ" يَعْنِي تَهْمَارِي دُوسْتِي كَمُوْرُوْرِي مِيْنِ هُوَا - اَنَا نَاشِطٌ - الْمِنْشَطُ: سِهْتٌ جِسْتٌ - الْمِنْشَطُ: خُوْشٌ دَلِي - كَمَا جَانَا هُوَا "اِفْعَلُوْا ذَلِكِ عَلَيِ الْمِنْشَطِ وَ الْمَكُوْرُوْ" اِسِ كُو خُوْشٌ دَلِي اَوْرَا تَارِي مِيْنِ كِه بَا جُو دَكُوْرُو - نَشَطُ (ن) اِنْتَشُوْطَا التَّنَبَاتُ: بِنَاتَاتٌ كَا مَوْدُوْرَا هُوَا -

نشع

نَشَعُ (ف) نَشَعَا الرَّجُلُ: سَكِي لِيَا - الشَّيْءُ: نَشِي سِه كَيْبِيَا - الطَّيْبُ: خُوْشِيُو سُوْغَمَا - فَلَا نَا الدَّوَاةُ: دُوَا مَنِي مِيْنِ نِيْكََا - هُوَا الْكَلَامُ: تَلْقِيْنٌ كَرَا - سُوْجَمَا - نَشَعُ (ف) نَشُوْعَا: قَرِيْبٌ اِلَى مَوْتِ هُوَا كَرَمَحْتِ بَانَا - نَبِيْعٌ نَشَعًا بِكَذَا: مَشْتَقٌ هُوَا - قَرِيْبَةٌ هُوَا - مَعْتٌ مَنَشُوْعٌ بِهِ - اَنْشَعَةُ الدَّوَاةُ: مَنِي مِيْنِ دُوَا نِيْكََا - هُوَا الْكَلَامُ: تَلْقِيْنٌ كَرَا - سُوْجَمَا - اِنْتَشَعُ: نَاكٌ مِيْنِ دُوَا نِيْكََا - الشَّيْءُ: نَشِي سِه كَيْبِيَا - التَّنَشُوْعُ: نَاكٌ مِيْنِ دُوَا نِيْكََا - دُوَا جُو مَرِيضِ كِه مَنِي مِيْنِ نِيْكََا جَانِي - هِرُوَهٌ جِيْرُو سَاكِبِي كُو مَجْمَلَا دُوَا - اِنْتَشَاعٌ - اِمْبِرَا هُوَا - التَّنَشِعُ: خَرَابٌ مَزِي كَلْبَانِي - اِنْتَشَاعَةُ: هَاتِهِ سِه نَكَالِ كَرِيْمِي كِي هُوَا كِي مِيْنَشَعُ وَ الْمِنْشَعَةُ: مَنِي يَانَا كِي مِيْنِ نِيْكََا نِيْكََا دُوَا كَابَرْتَنِ - نَشَعُ (ف) نَشَعَا الْمَاءُ: بَانِي بَسَا - هُوَا بِالرُّوْحِ: نِيْرُهُ مَارَا - هُوَا الْكَلَامُ: تَلْقِيْنٌ كَرَا - كَيْبِيَا - الصَّبِيءُ: سَبِيْعٌ كِه مَنِي مِيْنِ دُوَا نِيْكََا - الْمَاءُ: اُوْكٌ سِه بَانِي بِيَا - الرَّجُلُ: سَكِي لِيَا مِيْمَانِ تَنَكِ كِه بِيْوَشِي طَارِي هُوَا جَانِي - نَشَعُ الصَّبِيءُ: سَبِيْعٌ كِه مَنِي مِيْنِ دُوَا نِيْكََا جَانَا - بِالشَّيْءِ: مَشْتَقٌ هُوَا - قَرِيْبَةٌ هُوَا - مَعْتٌ مَنَشُوْعٌ بِهِ - اَنْشَعُ عَنْهُ: عَلِيْدُهُ هُوَا - هُوَا الْكَلَامُ: تَلْقِيْنٌ كَرَا - مَجْمَا - تَنْشَعُ: سَكِي لِيَا مِيْمَانِ تَنَكِ كِه بِيْوَشِي طَارِي هُوَا جَانِي - وَ نَاشَعُ وَ اِنْتَشَعُ الْكَلَامُ: يَكِيْمَا اَوْر حَا صِلٌ كَرَا - اِنْتَشَاعٌ: فَاجِ نَشَعٌ مَوْثُجٌ نَاشِعَةٌ - جِ نَوَاشِغٌ وَ نَاشِغَاتٌ - النَوَاشِغُ: وَا دِي مِيْنِ بِيْنِي كِي تَالِيَا - التَّنَشِغَةُ: لَبِي لَبِي سَاكِنُوْرِي مِيْنِ سِه اِيكِي سَاكِنِ - مَوْتِ كِه وَ قَتِ كِي سِهْتِ بَلَكِي بَلَكِي - جِ نَشِغَاتٌ - التَّنَشِغُ: نَاكٌ مِيْنِ دُوَا نِيْكََا نِيْكََا دُوَا - جِيْرِي مَرِيضِ

نشف

كِه مَنِي مِيْنِ نِيْكََا نِيْكََا دُوَا - الْمِنْشَعُ وَ الْمِنْشَعَةُ: مَنِي يَانَا كِي مِيْنِ دُوَا نِيْكََا نِيْكََا كَابَرْتَنِ - نَشِفُ (س) وَ نَشَفُ (ن) نَشَعَا الْقُوْبُ الْعَرَقُ اَوِ الْحَوْضُ الْمَاءُ: كَبُرِي كَا لَبِيْدِي كُوَا حَوْضٌ كَا بَانِي كُو جَذِبٌ كَرِيْمَا - الْمَاءُ لَبِي الْاَرْضِ: جَذِبٌ هُوَا - نَشَفَتِ الْبِيْرُ: كَتُوْرِي كَا بَانِي قَتْمٌ هُوَا - نَشَفُ (ض) نَشَعَا الْمَاءُ: بَانِي كُو جِيْتَمَرِي وَ غِيْرِهِ سِه شَكٌ كَرِيْمَا - نَشَفُ الْمَاءُ: بَانِي كُو جِيْتَمَرِي وَ غِيْرِهِ سِه شَكٌ كَرِيْمَا - نَشَفَتِ الثَّقَاةُ: زَمَانٌ وَا دِلَاتِ كِه قَرَبِ كِي وَجِي سِه كَيْبِي قَتْمِنٌ كَا مَجْرَا هُوَا اَوْر كَيْبِي شَكٌ هُوَا - مَعْتٌ مَنَشَفٌ - جَمَاكٌ دَالِي دُوْدُهُ دَالِي هُوَا - اَنْشَفُ: جَمَاكٌ وَا لَادُوْدُهُ بَانَا - تَنْشَفُ الْقُوْبُ الْعَرَقُ: كَبُرِي كَا لَبِيْدِي كُو جَذِبٌ كَرَا - الرَّجُلُ: جِيْتَمَرِي وَ غِيْرِهِ سِه جَمِ پُوْ نَشَمَا - اِنْتَشَفُ: جَمَاكٌ وَا لَادُوْدُهُ بَانَا - اِنْتَشَفُ: مِيْلٌ وَ غِيْرُهُ صَافٌ كَرَا - التَّنَشَفُ: بَانِي كَا جَذِبٌ هُوَا - الْمِنْشَفَةُ وَ الْمِنْشَفَةُ: تَهْمُوْرِي جِيْرُوْرَتِنِ مِيْنِ بَاتِي رِه جَانِي - التَّنَشَفَةُ: دِه جِيْرُوْرِمٌ كَرَمٌ هَا مَرِي سِه نَكَالِي جَانِي اَوْر كَمَا كَانِي جَانِي - التَّنَشَفَةُ: جَمِيْلِيْتٌ اَلْوَنٌ وَ التَّنَشَفَةُ: جَمَانُوْرِي - جِ نَشَفٌ وَ نَشَفٌ وَ نَشَفٌ وَ نَشَفٌ وَ نَشَفٌ - التَّنَشَفَةُ وَ التَّنَشَفَةُ: بَانِي پُوْ نَشِي كَا كَبُرَا - جَمَانُوْرِي - التَّنَشَفَةُ وَ التَّنَشَفَةُ: دُوْدُهُ دُوْبِي وَ سِهْتِي وَ قَتِ كِه جَمَاكٌ - التَّنَشَفَةُ: جَذِبٌ شَدُوْ بَانِي - دِه جِيْرُوْرِمٌ كَرَمٌ هَا مَرِي سِه نَكَالِي جَانِي - اَرْضٌ نَشَفَةٌ: بَانِي جَذِبٌ كَرِيْمٌ وَ اِلَى زَمِنِ - الْمِنْشَفَةُ: رُوْمَالٌ - تَوَلِيْدٌ (سَوْلَهُ) مَنِي نَاشِغِي - التَّنَشَافُ: دِه مَخْمُضٌ جُوْرُوْنِي كُو دِيكِي كِه سِرِي سِه تَرَكِي تَمَا كَمَا كَانِي - نَشِي (س) نَشَعَا وَ نَشَعَا الرَّوْبُجُ: يُوْ سُوْغَمَا - فِي الْجَبَالِ: پِهْنَدِي مِيْنِ جَمَانُوْرِي

ہوتا۔ کہا جاتا ہے "نِشِي مِنَ الشَّرَابِ" وہ شراب سے مست ہوا۔

نِشِي وَاِسْتَنْشِي الخَيْرَ: خیر دریافت کرنا۔

النِّشَاءُ: عمدہ خوشبو۔ یوج انشاء (ج والنشاء) نشاستہ۔

النِّشَاءُ: خشک درخت۔ ج نشاء۔

النِّشْوَةُ: اسم مرہ۔ مستی یا ہتھائے مستی۔ یوج۔

النِّشْوَةُ: تازہ خبز۔

النِّشْيَةُ: یوج نشیاب۔

النِّشْوَانُ: مست۔ مؤنث۔ نَشْوَى: ج نَشَاوَى۔

النِّشْيَانُ: پیلے پیل خبر کو معلوم کرنے والا۔ کہا

جاتا ہے "فَلَانٌ نِّشْيَانٌ لِلْأَخْبَارِ" او

بِالْأَخْبَارِ"۔

نَصَّ (ن) نَصَّ الشَّيْءُ: بلند کرنا۔ نمایاں کرنا۔

حکرت دینا۔ اَلْحَدِيثُ: حدیث کی سند بیان

کرنا۔ اَلزُّجْلُ: پوری طرح سے دریافت کرنا

اَلثَّاقَةُ: اونٹنی کو تیز دوڑانا۔ اَلْمَتَاعُ:

سلمان سے تیز رکھنا۔ اَلْعَرْوُوسُ: دلہن کو جگہ

عروسی میں بٹھانا۔ فُلَانٌ عَقَّقَهُ: گردن اٹھانا

اَلشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔

نَصَّ (ض) نَصَّ الشَّوَاءَ عَلَيَّ النَّارَ:

بھوننے کے وقت آواز نکالنا۔ نَصَّبَ الْفَيْدُزُ:

ہانڈی کا جوڑ مارنا۔

نَصَّصَ وَنَاصَ مَتَاعَهُ عَرِيْمَةً: قرض دار

سے جھگڑا کرنا اور امرار سے طلب کرنا۔ نَصَّصَ

اَلْمَتَاعُ: سلمان سے تیز رکھنا۔ نَصَّصَ فُلَانٌ:

تصریح کرنے میں مبالغہ کرنا۔

اِنْتَصَّ الشَّيْءُ: بلند ہونا۔ سیدھا ہونا۔ اِنْتَصَّصَ

الرُّمُحُ: کھڑا ہونا۔ سکرنا۔ اِنْتَصَّصَ الْعَرْوُوسُ:

دلہن کا جگہ عروسی میں بٹھانا۔

فَنَاصَ الْقَوْمُ: ہجوم کرنا۔

النَّصُّ: مہ۔ ممرح کلام۔ ج نَصُوصُ۔

وَالنَّصُّ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: انجام۔ اِتْمَا۔ النَّصُّ مِنْ

اَلْكَلَامِ: ایسا کلام جس میں تاویل کی گنجائش نہ

ہو۔

النَّصَّةُ: اسم مرہ۔ ماہہ چڑیا۔

النَّصَّةُ: ماتھے پر لگے ہوئے بال۔ ج نَصَّصَ وَ

اَلجَنْشَلُ وَالْمَنْشَلُ: کندی دار سبج جس سے گوشت نکالیں۔ ج مَنَاشِلُ۔

نِشِمَ (س) نِشِمَا الْقُوْرُ: بتل کا سیاہ و سفید

دافعوں والا ہونا۔ مرفت نِشِمَ۔

نِشِمَ اللَّحْمُ: گوشت کا بگڑ جانا۔ یودار ہو جانا

اَلْأَرْضُ: زمین سے پانی کا رستا۔ فنی

فُلَانٌ: بگڑ گئی کرنا۔ فنی الشَّرُّ: برائی میں

مشغول ہونا۔ اَللَّهُ ذِکْرُ فُلَانٍ: بلند کرنا۔ شہرت

دینا۔ وَتَنَشَّمُ فِي الْأَمْرِ: شروع کرنا۔ تَنَشَّمُ

مِنْهُ عَلَمًا: حاصل کرنا۔ استفادہ کرنا۔

التَّشْمُ: مہ۔ ایک درخت کا نام جس سے کمان

بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "بَدِي نِشْمَةٌ مِنَ الْجُبَيْنِ

وَنُحُوبِهِ" یعنی میرا ہاتھ یودار ہے۔

اَلْمَنْشِمُ وَالْمَنْشِمُ: ایک قسم کی خوشبو جس کا

کوٹھاد شور ہے۔ مَنْشِمٌ: ایک عطر فروش عورت

کا نام کہ جب اس سے عطر لے کر نکالتے تھے تو

لڑائی بہت زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے

یہ مثل مشہور ہے "أَشْأَمُ مِنْ عِظَرِ مَنْشِمٍ":

اَلْمَنْشِمُ: حبث بلسان۔

نَشَّشَ نَشْنَشَةً الْجِلْدُ: کھال اُتارنا۔

الشَّيْءُ: زور سے بٹانا۔ اَلْقُوْرُ: بتل کو ہانکنا

وَحَكَارًا: اَلْقُوْبُ: کپڑے اُتارنا۔

اَلوَحَاءُ: برتن کو جھاڑنا۔ تَحْمِيرًا: اَلنَّسَبُ:

لیانا۔ نَشَّصَتِ الْفَيْدُزُ: ہانڈی کا اہال میں آواز

نکالنا۔ نَشَّصَ الزُّجْلُ: کام میں جلدی کرنا۔

اَللَّحْمُ: گوشت کو جلدی کھانا۔ اَلجَوَارِيَةُ:

جماع کرنا۔

تَنَشَّصَ مَطَاوِعَ نَشْنَشَ: اَلشَّجْوَرُ:

درخت سے چھال اُتارنا۔

اَلتَّشْنِشَةُ: مہ۔ زرہ۔ کانڈ۔ نئے کپڑے وغیرہ کی

کوڑھڑاہٹ۔

اَلتَّشْنِشُ وَالنَّشْنِشُ وَالنَّشْنِشِيُّ: عمل یا

حرکت میں ہلکا پھلکا۔ اَرْضٌ نَشْنِشَةٌ: زمین شور۔

نِشِي نِشِي نِشْوَةٌ وَنِشْوَةٌ وَنِشْوَةٌ وَنِشْوَةٌ

وَأَنْشِي وَأَنْشِي الزُّوْبُجُ: سوگھنا نِشِي

بِالشَّيْءِ: بار بار کرنا۔

نِشِي نِشِي نِشْوًا وَنِشْوَةً وَنِشْوَةً وَنِشْوَةً

نِشِي وَنِشِي وَأَنْشِي: مست ہونا۔ نَشْرُ وَالْأ

أَنْشَقَهُ الْمُنْكَ وَنُحُوَهُ: مٹک وغیرہ

سوگھنا۔ اَلطَّنِي فِي الْحَيَاةِ: بہن کو جال

میں پھنسانا۔ اور کہا جاتا ہے "أَنْشَقْتَهُ الْجِنَانَةَ"

اس کو جال نے پھنسا لیا۔ اَلتَّشْوُفِيُّ: سوار

سوگھنا۔

تَنَشَّقُ وَأَنْشَقُ وَأَسْتَنْشِقُ الْمَا: فنی

أَنْقَهُ: ناک میں پانی ڈالنا۔ تَنَشَّقُ وَأَسْتَنْشِقُ

الزُّوْبُجُ أَوِ التَّشْوُفِيُّ: یو یا سوار سوگھنا۔

اَلنَّشَقَةُ: بکری وغیرہ کی گردن کا پٹہ۔ ج نَشَقُ۔

اَلنَّشِقُ: وہ شخص جو کسی کام میں پھنس جائے

اور رہائی نہ پا سکے۔

اَلنَّشِقُ وَالنَّشِقُ: سوگھنا۔ کہا جاتا ہے

"زَانِحَةٌ مَكْرُوهَةٌ اَلنَّشِقُ"

اَلتَّشْوُفِيُّ: سوار۔ ناک میں ڈالنے کی دوا۔ ہر

دوا جو سوتھیں جائے۔

اَلْمَنْشِقُ: ناک۔ ج مَنَاشِقُ۔

اَلْمَنْشَقَةُ: وہ ذبیہ وغیرہ جس میں سوار

رکھیں۔

نَشَّلَ (ن) نَشَّوَلَا الزُّجْلُ: ویلا ہونا۔

نَشَّلَتِ الْفَيْدُزُ: کم گوشت والی ہونا۔ مرفت

نَاشِلَةٌ۔

نَشَّلَ (ض ن) نَشَّلَا الشَّيْءُ: جلدی سے

اچک لیا۔ چھین لیا۔ اَلنَّخَاتِمُ: انگوٹھی اُتارنا

نَشَّلَتِ الْحَيَّةُ الزُّجْلُ: سانپ کا ڈنٹا۔

اَللَّحْمُ: گوشت بغیر سالہ کے پکانا۔ بغیر چچے کے

ہاتھ سے نکالنا۔

أَنْشَلَّ وَأَنْشَلَّ اَللَّحْمُ مِنَ الْفَيْدُزُ: گوشت

کو ہانڈی سے نکالنا۔ مَا عَلَيَّ الْعَظِيمُ بِغِيْتِهِ:

دانت سے چھڑا کر کھانا۔

اَلنَّشَلُ: مہ۔ بغیر سالہ کے پکا ہوا گوشت۔

اَلنَّشَالُ: اکثر بغیر سالہ کے گوشت پکانے والا۔

روٹی کو دیگ کے سرے سے تر کر کے تھما کھانے

والا۔ گرہ کٹ۔ جبب کترا۔

اَلتَّشْبِيلُ: کونین کا پہلا پانی۔ تازہ دودھ۔ بتلی

کوار۔ بغیر چچے کے ہاتھ سے نکالا ہوا گوشت۔ بغیر

سالہ کے پکا ہوا گوشت۔

اَلْمَنْشَلَةُ: اٹلی کا وہ حصہ جو انگوٹھی کے نیچے

نصاص۔

التصينص۔ مع۔ نَصِيصُ الْقَوْمِ: لوگوں کی تعداد۔

الْمَنْصَةُ۔ جلد عروسی۔ دلہن کیلئے آراستہ کیا ہوا کمرہ۔

الْمَنْصَةُ۔ دلہن کے بٹھانے کی کرسی۔ پیوند لگے ہوئے کپڑے۔ پاؤں سے روندے ہوئے

فرش۔ ج. مَنَاصُ۔ اور کہا جاتا ہے "وَضِعْ فَلَانٌ عَلَيَّ الْمَنْصَةَ" یعنی فلاں کی بے عزتی کی گئی۔

النَّصَاصُ۔ ناک کو حرکت دینے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَصَاصُ الْأَنْفِ"

الْمَنْصُوضُ۔ مضم۔ تفریح شدہ۔ معین۔ نَصَاةُ (ف) نَصَاً۔ پیشانی کے بال پکڑنا۔

الرَّجُلُ: بُوَاشَا۔ دفع کرنا۔ نَصَبَةُ (ض ن) نَصَبًا الْمَرْضُ أَوْ الْهَيْمُ:

تھکانا۔ تکلیف دینا۔ نَصَبُ الشَّيْءِ: بلند کرنا۔ کھڑا کرنا۔ گاڑنا — الشَّجَرَةَ: پودہ لگانا — لُةُ

الْحَزْبِ: کسی سے لڑائی کی بنیاد رکھنا — لُةُ الشَّرِّ بَرَأِي ظَاهِرًا: رائے دینا —

لِفُلَانٍ: دُخْشِي کرنا۔ — الْكَلِمَةَ: کلمہ کو زیر دینا یا زیر کے ساتھ پڑھنا — الْأَمِيرُ فَلَانًا: کسی کو عمدہ پر مقرر کرنا۔

نَصَبُ (س) نَصَبًا تَهَكَّنَا — فِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔

نَصَبُ الشَّيْءِ: رکھنا۔ بلند کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَصَبَتِ الْخَيْلُ آذَانَهَا" گھوڑوں نے اپنے

کان کھڑے کیے — الْأَمِيرُ فَلَانًا: کسی کو عمدہ پر مقرر کرنا۔

الْأَنْصِبَةُ: تھکانا۔ حصہ مقرر کرنا — هُ الْخَوْضُ: تکلیف دینا۔ أَنْصَبَ الْخَدِيثُ:

سند بیان کرنا — السَّكِينُ: پھماری کا ستہ لگانا۔ نَاصِبَةٌ مَنَاصِبَةٌ: دشمنی کرنا۔ مقابلہ کرنا — هُ

الْحَزْبِ أَوْ الْعَدَاوَةِ: لڑائی کا اعلان کرنا، دشمنی ظاہر کرنا۔

النَّصَبُ: کھڑا ہونا۔ بلند ہونا — الْحَزْفُ: حرف پر زبر ہونا — الظَّاهِي: پکانے والے کا

ہانڈی چڑھانا۔ نَصَبُ كُفْرًا هُوَا — الْغِيَاؤُ وَنَحْوُهُ: بلند

ہونا۔

تَنَاصَبُوا الشَّيْءَ: باہم تقسیم کرنا۔

النَّصَبُ۔ مع۔ کھڑا کیا ہوا جھنڈا۔ بلا۔ مرض۔ نتیجہ — عِنْدَ النُّحَاةِ: ایک حرکت اعرابی کا نام اور اسی

کے مقابلہ میں بنائی حرکت کو فتح کہتے ہیں۔ نَصَبُ الْعَرَبِ: ایک قسم کا راک جو حدی کے مشابہ ہے۔

النَّصَبُ۔ حصہ (نصیب میں ایک لغت) النَّصَبُ وَالنَّصَبُ: کھڑی کی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "هَذَا نَصَبُ عَيْنِي" یعنی یہ میری نگاہ کے

سامنے ہے۔ بت۔ ج. أَنْصَابُ۔ مرض۔ بلا و معیبت۔ النَّصَبُ: حصہ۔ ہر وہ چیز جو علامت

مقرر کی جائے۔ نَصَابُ کی جمع۔ الْأَنْصَابُ: پتھر جو کعبہ کے ارد گرد کھڑے کیے گئے تھے اور وہاں جانور غیر اللہ کے نام کا ذبح کرتے

تھے۔ النَّصَبُ۔ مع۔ کھڑی کی ہوئی علامت۔ ج. أَنْصَابُ۔ النَّصِبُ: بیمار۔ جملاء درود۔

النَّصِبَةُ: نَصَبُ کا اسم مرہ۔ نَصَبُ کی علامت گاڑنے کے لیے پورہ۔

النَّصِبَةُ: گاڑنے کی نوعیت۔ النَّصِبَةُ: ستون وغیرہ جو راستہ بتانے کے لیے

کھڑا کیا جائے۔ ج. نَصَبُ النَّصَابُ: اصل۔ مرجع۔ سورج غروب ہونے

کی جگہ۔ ہر چیز کی ابتدا۔ چھری کا دستہ۔ مال کی وہ مقدار جس پر ذکوۃ واجب ہو۔ ج. نَصَبُ النَّصِيبِ: حصہ۔ حوض۔ نَصَبُ کیا ہوا پھنداج

النَّصِيبَةُ وَالنَّصِيبَةُ وَالنَّصِيبَةُ: حوض کے ارد گرد کا پتھر۔ ج. نَصَائِبُ۔ النَّاصِبُ: فا۔ تیز رفتار۔ هَمَّ نَاصِبٌ: تھکاوٹ

والا غم — عِنْدَ النُّحَاةِ: نصب دینے والا عالِم ج. نَوَاصِبُ۔ النَّصَابُ: ہر کام میں خود گھسنے والا۔

الْأَنْصَابُ وَالنَّصَائِبُ: راستہ پر کھڑے کیے ہوئے نشانات۔ الْأَنْصَابُ: سیدھے سینگوں والا۔ مؤنث

نَصَبَاءُ وَنَاقَةٌ نَصَبَاءُ: ابھرے ہوئے سیدھ والی

اونٹنی۔

الْمَنْصِبُ: اصل۔ مرجع۔ حسب و شرافت اور اسی سے ہے مَنْصِبٌ یعنی عمدہ حکومت ج

مَنَاصِبُ: کہا جاتا ہے "لِفُلَانٍ مَنَصِبٌ" یعنی فلاں کے لیے علم مرتبہ ہے۔

الْمَنْصِبُ: وگیدان آہنی۔ ج. مَنَاصِبُ۔ الْمَنْصِبَةُ: رنج و کلفت۔ کہا جاتا ہے "عَيْشٌ ذُو مَنَصِبَةٍ" رنج و کلفت والی زندگی۔

الْمَنْصَبُ: مضم۔ — أَسْنَانٌ مَنَصِبَةٌ: خوبصورت ترتیب و اردانت۔

الْمَنْصُوبُ: مضم۔ وہ کلمات جن پر نصب ہو۔ الْمَنْصُوبَةُ: الْمَنْصُوبُ کا مؤنث۔ حیلہ۔ کہا

جاتا ہے "سَوَّيْتُ لَهُ مَنَصُوبَةً" اس نے اس کے لیے حیلہ سوچا۔

نَصَّتْ (ض) نَصَبًا وَأَنْصَتَ وَأَنْصَتَ لَهُ: بات سننے کے لیے خاموش رہنا۔ أَنْصَتُ: خاموش کرنا۔

تَنَصَّتْ: خاموش رہنے اور سننے کی کوشش کرنا۔

اسْتَنْصَتْ: خاموش کھڑا ہونا — هُ خَامُوشٌ رهنے کی درخواست کرنا۔

النَّصِيبَةُ: خاموشی۔ نَصَحَ (ف) نَصَحًا وَنُصْحًا وَنُصَاخَةً وَ

نُصَاخَةً وَنُصَاخَةً: فَلَانًا وَبِفُلَانٍ: نصیحت کرنا۔ مخلص ہونا۔ صفت نَاصِحٌ ج. نَصَاحٌ وَ

نُصْحٌ: کہا جاتا ہے "لَا أُرِيدُ مِنْكَ نُصْحًا وَلَا إِنْصَاخًا" یعنی میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو نصیحت کرو اور نہ مجھے تابع سمجھو۔

نَصَحَ (ف) نَصَحًا وَنُصُوحًا الشَّيْءُ: خالص ہونا۔ صاف ہونا — نُوَيْبَةٌ: بخت تو بہ کرنا

— الْعَقْلُ: خالص طریقہ سے کرنا — الْعَقْلُ: شدت صاف کرنا — الْقُوبُ: کپڑا سینا

— الْعَيْشُ الْبَلَدُ: اچھی طرح سے سیراب کر کے سبزہ زار کر دینا۔

نَاصِحَةٌ مَنَاصِحَةٌ: ایک دوسرے کو نصیحت کرنا — نَفْسُهُ بِالْتَّوْبَةِ: خالص توبہ کرنا۔

أَنْصَحَ الرَّاعِي الْأَيْلَ: سیراب کرنا۔ تَنْصَحُ: بہت نصیحت کرنا۔ نصیحت کرنے

والوں کے مشابہ ہونا — النَّوْبُ: کپڑا سینا۔
انْتَصَحَ: نصیحت قبول کرنا — فَلَانًا خیر خواہ سمجھنا۔

انْتَصَحَهُ: خیر خواہ سمجھنا۔

النِّصَاحُ: دھاگہ۔ سبک۔ ج نَصَحٌ و نِصَاحَةٌ۔

النِّصَاحَاتُ: چیزے اسلئے کہ بعض کو بعض سے ملا کر سیتے ہیں۔ چند سے۔ واحد نِصَاحَةٌ۔

النَّاصِحُ: خالص شہد وغیرہ۔ اور کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ نَاصِحٌ الْخَيْبِ“ یعنی صاف دل مرد۔

النَّاصِحُ وَالنِّصَاحُ وَالنَّاصِحِيُّ: درزی۔
النِّصِيحُ: خیر خواہ۔ نصیحت کرنے والا۔ ج نَصَاحَةٌ۔

النِّصْوُحُ: نصیحت کرنے والا (مذکر مؤنث)
تَوْبَةٌ نِصْوُحٌ: خالص توبہ۔

النِّصْبِيحَةُ: اسم مصدر۔ اخلاص۔ خیر و صلاح کی طرف بلانا اور شرف و ناسدے روکنانہ نَصَابِحٌ۔

غُيُوثٌ نَوَاصِحٌ: لگا تار بارشیں۔
الْمِنْصَحُ وَالْمِنْصَحَةُ: سوئی۔

الْمِنْصَحُ: منہ۔ نُوبٌ مُنْتَصَحٌ: بوند لگا ہوا یا سلا ہوا کپڑا۔ اور کہا جاتا ہے ”إِنِّي فِئِ تَوْبَةٍ مُنْتَصِحٌ“ اس کے کپڑے میں سینے کی جگہ ہے۔

نَصْرَةٌ (ن) نَصْرًا: مدد کرنا — مِنْ وَعَلَى عَدُوِّهِ: دشمن سے نجات دلانا۔ کسی کے برخلاف مدد دینا۔ نَصْرَ الْفَيْثِ الْأَرْضِ: عالمگیر بارش ہونا۔

فَلَانًا: دینا۔
نُصِرَتِ الْأَرْضُ: بارش ہونا۔

نَصْرَةٌ: نصرانی بنانا۔
نَاصِرَةٌ مُنَاصِرَةٌ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

نَصْرًا: نصرانی ہونا۔ تَنْصَرُّهُ: مدد کی کوشش کرنا۔

تَنَاصَرُ الْقَوْمُ: باہم مدد کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَنَاصَرَتِ الْأَخْبَارُ“ یعنی خبروں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی۔

انْتَصَرَ: مدد کرنے میں غالب ہونا۔ کامیاب ہونا۔ ظالم سے پتلا — مِنْ عَدُوِّهِ: دشمن سے بدلہ لینا — عَلَى خَصْمِهِ: غالب ہونا۔

انْتَصَرَهُ: مدد طلب کرنا۔ انْتَصَرَ بِهِ: فریاد کرنا — فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ: کسی کے برخلاف مدد کرنے کی درخواست کرنا۔

النَّصْرُ: مددگار۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ نَصْرٌ وَقَوْمٌ نَصْرٌ“ یعنی ”جملہ ناصروں۔“

جمع ناصِرٌ کی جیسے زَكَبَتْ جَمْعُ زَكَيْبٍ کی۔ النَّصْرُ: بارش۔

النَّصْرَةُ: نصر کا اسم مرہ۔ کامل بارش۔
النَّصْرَةُ: مدد اور بہترین اعانت۔ کامل بارش۔

النَّصْرَانِيُّ: شہر ناصروہ کی طرف منسوب۔ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علی نبیہا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے متبع ہیں۔ ج نَصْرَانِيٌّ مُؤَنَّثٌ نَصْرًا نِيَّةً۔

النَّصْرَانِيَّةُ: نصاریٰ کا دین۔
النَّصْرَانِيُّ: نصرانی۔ مؤنث نَصْرَانِيَّةً۔

النَّاصِرُ: ج نَاصِرُونَ و نَاصِرٌ و نَصْرٌ و انْصَارٌ و الانْصَارُ عَلَى الْأَفْلَاقِ: نبی کریم ﷺ کے مددگار جو باشندگانِ مدینہ طیبہ تھے۔ اور نسبت کے لیے انْصَارِيٌّ کہا جاتا ہے۔ النَّاصِرُ: وادی کی طرف بننے کی نالی۔ ج نَوَاصِرٌ۔ کہا جاتا ہے ”مَدَدَتِ الْوَادِي التَّوَاصِرُ“ وادی کو نالیوں نے بڑھادیا۔

النَّاصِرَةُ النَّاصِرُ كَالْمُؤَنَّثِ: و نَاصِرَةٌ: ایک شہر کا نام جو حضرت عیسیٰ علی نبیہا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی جائے پیدائش تھی اور نسبت کیلئے نَاصِرِيٌّ۔

النَّصْرُ وَالنَّصْرُ: مددگار۔ ج نَصْرًا و انْصَارًا۔
النَّصِيرَةُ: النَّصِيرُ كَالْمُؤَنَّثِ: عطیہ۔ ج نَصَائِرٌ۔
النَّصِيرِيَّةُ: خالی شیعوں کا ایک فرقہ جو شام کے شمال میں رہتے ہیں اور اپنے اعتقادات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ واحد نَصِيرِيٌّ۔

النَّاصِرُ: مددگار۔ ج نَوَاصِرٌ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔

النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔

النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔

النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔

النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔

النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔

النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔

النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔

النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔
النَّصَارَةُ: نصاریٰ۔ ج نَصَارِيٌّ۔

— اللَّوْنُ: بہت سفید ہونا — الشَّارِبُ: پیاسے کا پیاس بجھانا — الْأَهْبِيُّ: جتنا کہا جاتا ہے ”فَبَقِيَ اللَّهُ أَمَا تَنْصَعَتْ بِهِ“ اللہ اس ماں کا بڑا کرے جس نے اس کو جتنا ہے (— و انْصَع) بِالْحَقِّ: حق کا اقرار کر کے ادا کرنا۔ انْصَع لِّلشَّيْءِ: برائی کے درپے ہونا۔

النَّصْعُ وَالنِّصْعُ وَالنِّصْعُ: بہت سفید چڑایا کپڑا۔

النِّصْعُ: چیزے کا فرش جس پر مجرم کو قتل کیا جاتا تھا۔

النَّاصِعُ وَالنِّصْيَعُ: خالص۔ صاف۔ کہا جاتا ہے ”أَصْفَرُ نَاصِعٌ أَيْضًا نَاصِعٌ حَقِّي نَاصِعٌ“ خالص حق۔ حَسَبَ نَاصِعٌ: خالص حسب۔ کہا جاتا ہے اَحْمَرُ نَصَاعٌ یعنی خالص سرخ۔ حَفْرَةٌ نَصَاعَةٌ: خالص سُرْحِيٌّ۔

الْمَنَاصِعُ: قضاء حاجت کے مقامات۔ واحد مَنَصْعٌ۔

نَصْفَةٌ (ن ض) نَصْفًا: آدھے تک پہنچنا۔ کہا جاتا ہے ”نَصَفْتُ عُثْمَرِيَّ“ میں اپنی آدمی عمر کو پہنچا۔ و ”نَصَفْتُ الْكِتَابَ“ میں آدمی کتاب تک پہنچا۔ نَصَفَ النَّهَارَ وَغَيْرَهُ: دن کا آدھے تک پہنچنا (— نَصْفًا وَنَصْفًا وَنِصَافًا وَنِصَافَةً وَنِصَافَةً) نَصْفًا وَنِصَافًا وَنِصَافَةً

النَّشِيُّ: آدھا لینا — الْقَوْمُ: آدھا وصول کرنا۔
— الشَّيْءُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: آدھا آدھا تقسیم کرنا۔
— الْقَيْدُخُ: پیالہ سے آدھا پینا (نَصْفٌ (ن) نِصْفًا) النَّخْلُ: کچھ سُرخ کچھ سبز چھوڑوں والا ہونا۔

نَصْفَ الشَّيْءِ: آدھا آدھا کرنا۔ آدھا لینا۔ النَّهَارُ: دن کا آدھا ہونا — زَائِسٌ فَلَانِيٌّ: سرکا آدھا سفید آدھا سیاہ ہونا — الرَّجُلُ: ادھیڑ عمر والا ہونا — الْجَارِيَةُ: ادھیڑی اڑھانا — النَّخْلُ: کچھ سُرخ کچھ سبز چھوڑوں والا ہونا۔

النَّصْفُ الشَّيْءِ: آدھے تک پہنچنا —
النَّصْفُ الشَّيْءِ: آدھا لینا — الرَّجُلُ: انصاف ور ہونا — الْمَسَافِرُ: آدھے دن چلنا — الْخَصْمَيْنِ: انصاف سے فیصلہ کرنا — مِنْ

نَصْفِ الشَّيْءِ: آدھے تک پہنچنا —
النَّصْفُ الشَّيْءِ: آدھا لینا — الرَّجُلُ: انصاف ور ہونا — الْمَسَافِرُ: آدھے دن چلنا — الْخَصْمَيْنِ: انصاف سے فیصلہ کرنا — مِنْ

نَصْفِ الشَّيْءِ: آدھے تک پہنچنا —
النَّصْفُ الشَّيْءِ: آدھا لینا — الرَّجُلُ: انصاف ور ہونا — الْمَسَافِرُ: آدھے دن چلنا — الْخَصْمَيْنِ: انصاف سے فیصلہ کرنا — مِنْ

نَصْفِ الشَّيْءِ: آدھے تک پہنچنا —
النَّصْفُ الشَّيْءِ: آدھا لینا — الرَّجُلُ: انصاف ور ہونا — الْمَسَافِرُ: آدھے دن چلنا — الْخَصْمَيْنِ: انصاف سے فیصلہ کرنا — مِنْ

نَصْفِ الشَّيْءِ: آدھے تک پہنچنا —
النَّصْفُ الشَّيْءِ: آدھا لینا — الرَّجُلُ: انصاف ور ہونا — الْمَسَافِرُ: آدھے دن چلنا — الْخَصْمَيْنِ: انصاف سے فیصلہ کرنا — مِنْ

نَصْفِ الشَّيْءِ: آدھے تک پہنچنا —
النَّصْفُ الشَّيْءِ: آدھا لینا — الرَّجُلُ: انصاف ور ہونا — الْمَسَافِرُ: آدھے دن چلنا — الْخَصْمَيْنِ: انصاف سے فیصلہ کرنا — مِنْ

نَصْفِ الشَّيْءِ: آدھے تک پہنچنا —
النَّصْفُ الشَّيْءِ: آدھا لینا — الرَّجُلُ: انصاف ور ہونا — الْمَسَافِرُ: آدھے دن چلنا — الْخَصْمَيْنِ: انصاف سے فیصلہ کرنا — مِنْ

نَصْفِ الشَّيْءِ: آدھے تک پہنچنا —
النَّصْفُ الشَّيْءِ: آدھا لینا — الرَّجُلُ: انصاف ور ہونا — الْمَسَافِرُ: آدھے دن چلنا — الْخَصْمَيْنِ: انصاف سے فیصلہ کرنا — مِنْ

نَصْفِ الشَّيْءِ: آدھے تک پہنچنا —
النَّصْفُ الشَّيْءِ: آدھا لینا — الرَّجُلُ: انصاف ور ہونا — الْمَسَافِرُ: آدھے دن چلنا — الْخَصْمَيْنِ: انصاف سے فیصلہ کرنا — مِنْ

نَصْفِ الشَّيْءِ: آدھے تک پہنچنا —
النَّصْفُ الشَّيْءِ: آدھا لینا — الرَّجُلُ: انصاف ور ہونا — الْمَسَافِرُ: آدھے دن چلنا — الْخَصْمَيْنِ: انصاف سے فیصلہ کرنا — مِنْ

فَلَانٍ: پورا حق وصول کرنا — فَلَانًا: خدمت کرنا — النَّصَاءُ الْإِنَاءُ: آدمے تک بھرنا اور کہا جاتا ہے "أَنْصَفْتُ الْمَاءَ الْإِنَاءَ": آدمے تک برتن کو پانی سے بھر دیا۔
نَاصِفَةٌ مُنَاصِفَةٌ: آدھا آدھا باٹھا۔ نَاصِفَةٌ الْمَالُ: آدھا مال دینا۔
كَتَصَفَ الْأَمِيرُ: انصاف کرنے کی درخواست کرنا۔ الشَّيْبُ فَلَانًا: تمام مال سفید ہونا — الرَّجُلُ: خدمت کرنا — فَلَانٌ فَلَانًا: خدمت کرنا۔ بھلائی طلب کرنا۔ مطبوع ہونا — الشَّيْءُ: آدھا لینا۔ اور کہا جاتا ہے "كَتَصَفْنَاكَ يَتَقَنَّأُ" یعنی ہم نے تم کو اپنے درمیان کر لیا۔
انْتَصَفَ التَّهَارُ وَغَيْرُهُ: دن کا آدمے تک پہنچنا — سَهْمُهُ فِي الصَّيْدِ: تیر کا شکار کے جسم میں آدھا داخل ہونا — الشَّيْءُ: آدھا لینا۔
تَنَصَّفَ وَانْتَصَفَ مِنْ فَلَانٍ: انصاف چاہنا۔ حق لینا۔ بدلہ لینا۔ تَنَصَّفَتْ وَانْتَصَفَتْ الْجَارِيَةُ: اوڑھنی اوڑھنا۔
تَنَاصَفَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے انصاف کرنا۔

اسْتَنْصَفَ: انصاف کرنا — مِنْ فَلَانٍ: پورا حق وصول کرنا۔
النِّصْفُ: بتلیکٹ النون: کسی چیز کا آدھا حق انصاف۔

التَّصَفُّ: درمیانی عمروالا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ نَصَفٌ" ج نَصَفُونَ وَانصَافٌ وَامْرَأَةٌ نَصَفٌ ج نَصَفٌ وَنُصْفٌ وَانصَافٌ: اور کہا جاتا ہے "إِنَّ فَلَانَةَ لَعَلَى نَصْفِهَا" یعنی فلاں عورت آدمی جوانی پر ہے (— وَالتَّصَفَّةُ) انصاف و عدل۔

النِّصْفُ وَقَدْ تَنَلَّتْ التُّونَ: انصاف رَجُلٌ نَصَفٌ: درمیانی عمر یا تندر والا۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے "امْرَأَةٌ بِنَصْفٍ وَرَجَالٌ أَوْ نِسَاءٌ نَصَفٌ" واحدہی کا لفظ کرمؤنث واحد جمع سب میں مستعمل ہے۔

التَّصْيِيفُ: آدھا۔ ہر وہ چیز جو سر کو چھپائے جیسے اوڑھنی اور عمامہ وغیرہ — مِنَ التَّبُودِ: دو رنگوں والی چادر۔

التَّاصِيفُ: فا۔ خادم ج نَصَفٌ وَنَصْفَةٌ وَنُصَافٌ۔

التَّاصِيفَةُ: التَّاصِيفُ كالمؤنث۔ نَاصِيفَةُ الْمَاءِ: نال ج نَوَاصِيفُ۔

النُّصْفَانُ مِنَ الْأَيْتَةِ وَنَحْوَهَا: نصف تک بھرا ہوا برتن۔ مؤنث نَصْفِيٌّ۔

الْأَنْصَفُ: بہت انصاف کرنے والا اور یہ انصَاف سے اسم تفضیل خلاف قیاس ہے۔

الْمُنْصِفُ وَالْمُنْصِفُ مِنَ الطَّرِيقِ: راستے کا آدھا۔

الْمُنْصِفُ وَالْمُنْصِفُ: خادم۔ مؤنث۔ مُنْصِفَةٌ ج مُنَاصِيفُ۔

الْمُنْصِفُ: نغم۔ شراب جس کو پکا کر آدھا کر دیا گیا ہو۔

مُنْتَصِفُ الشَّيْءِ وَمُنْصِفَةٌ: ہر چیز کا درمیان۔ الْمُتَنَاصِيفُ مِنَ الرَّجَالِ: سڈول بدن کا مرد۔

مَكَانٌ مُتَنَاصِيفٌ: برابر برابر اجزاء والی جگہ۔

نَصَلَ (ن) نَصَلًا الشَّهْمُ: تیر میں پیکان لگانا — الشَّهْمُ: پیکان لگانا۔

نَصَلَ (ن) نَصَلًا وَنُصَلًا مِنْ كَذَا: لگانا کہا جاتا ہے "نَصَلَ الشَّهْمُ مِنْ نَصَلِهِ" تیر پیکان سے نکل گیا۔ "وَنَصَلَتِ الْخَيْلُ مِنَ الْعُبَابِ" گھوڑے غبار سے نکل گئے و "نَصَلَ الطَّرِيقُ مِنْ مَوْضِعٍ كَذَا" راستہ فلاں جگہ سے نکل گیا۔ نَصَلَتِ اللَّحِيحَةُ: واڑھی سے خطاب کا رنگ زائل ہونا — النَّسْعَةُ أَوْ الْحَمَّةُ: ڈنگ کا اثر اتر جانا۔ وَنَصَلَ بِحَقِّي صَاعَةً: نکلنا — مِنْ بَيْنِ الْجِبَالِ: ظاہر ہونا — النَّاقَةُ: اونٹوں سے آگے بڑھ جانا۔

نَصَلَ وَانصَلَ الشَّهْمُ: تیر میں پیکان لگانا۔ وَانصَلَ الشَّهْمُ: پیکان جدا کرنا۔ انصَلَ الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ: نکلنا۔

نَصَلَ الشَّيْءُ: نکلنا۔ پسند کرنا — الرَّجُلُ: کسی کی ساری چیزیں لے لینا۔ نَصَلَ إِلَى فَلَانٍ مِنَ الْجَنَائِبِ: کسی کے پاس اپنے آپ کو بری کرنا — مِنْ كَذَا: نکلنا — اللَّحِيحَةُ: واڑھی سے خطاب کا رنگ زائل ہونا — كَمَدُ فَلَانٍ: رنج و غم زائل ہونا۔

انصَلَ الشَّهْمُ: پیکان لگانا۔ نَصَلَ: لگانا۔

اسْتَنْصَلَهُ: نکلنا۔ اسْتَنْصَلَتِ الرَّيْحُ الْيَبِيسُ: جلا سے اکھیڑنا۔

النَّصْلُ: مہم۔ پیکان۔ چاقو کا پھل۔ اور بنا اوقات کھوار کو بھی نَصَلَ کہتے ہیں۔ ج نَصَالٌ وَانصَلَ وَنُصُولٌ وَنَصْلُ الرَّاسِ: سر کا بالائی حصہ۔ اور کہا جاتا ہے "يَقُولُ نَصْلٌ" کدال جس کا دست نکلا ہوا ہو۔ النَّصْلَانُ: پیکان اور بحالہ۔

النَّصْلَةُ: ایک پیکان۔ النِّصْلُ: کھانا۔ سر کا بالائی حصہ۔ نالو۔ نُصْدِي کے نیچے گردن اور سر کا جوڑ۔ بھوسہ اور مٹی سے صاف گیوں۔ وادی کی ایک شاخ۔ نَصِيلُ الْحَجَرِ: پتھر کی سطح۔ ج نَصِيلُ النِّصْلِ وَالنِّصْلُ وَالْمِنْصَالُ: لمبا پتھر جس سے کوئے کا کام لیا جاتا ہے۔

الْمُنْصَلُ وَالْمُنْصَلُ: کھوار۔ ج مُنَاصِلُ۔ مُنْصَلُ الْأَيْتَةِ وَمُنْصَلُ الْإِلَالِ: نام ماہ ورجب کا۔

النِّصْمَةُ: تصویر جس کی تعظیم کی جائے۔ نَصْنَصُ التَّجْوِزِ: اٹھنے کے لیے دونوں زانو زمین میں لگانا — الشَّيْءُ: لانا — فِي مَشِيهِ: چلنے میں جو مٹنا۔ حَيْثُ نَصْنَصُ: بہت حرکت کرنے والا ساپ۔

نَصَا يَنْصُو نَصْوًا وَانصَى الرَّجُلُ: پیشانی کے بال پکڑنا۔ نَصَبَتِ الْمَاثِطَةُ الْمَرْأَةَ: پیشانی کے بالوں میں کنگھی کرنا۔ نَصَا فَلَانٌ الْقَوْمَ: اتارنا۔ ڈور کرنا۔

نَاصِي نِصَاءٍ وَنَاصِيَةُ الرَّجُلِ: ایک دوسرے کے پیشانی کے بال پکڑنا۔ نَاصِي الشَّيْءِ الشَّيْءُ: مشعل ہونا۔

نَتَّصَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ: قوم کی بہترین عورت سے شادی کرنا۔ نَتَّصَتِ الْمَرْأَةُ: پیشانی کے بالوں میں کنگھی کرنا۔ نَتَّصَى الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: مشعل ہونا۔

تَنَاصَى الْقَوْمَ: جھگڑے میں ایک دوسرے

پیشانی کے بالوں کو پھڑنا — الْأَغْصَانُ وَ نَحْوَهَا: ٹہنیوں کا ہوا چلنے کے وقت قریب ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے الجھنا۔

النَّضْوُ - مع - پیٹ کا دورہ۔

النَّاصِيَةُ: پیشانی یا پیشانی کے بال جبکہ لمبے ہوں۔ ج نواص و ناصيات۔ اور کہا جاتا ہے "أَذَلَّ فَلَانٌ نَّاصِيَةَ فَلَانٍ" یعنی فلاں نے فلاں کی اہانت کی۔ نواصی النّاس: قوم کے بڑے بڑے لوگ۔ عمائد۔

الْمُنْتَضِي: دو واویوں کے ملنے کی جگہ۔ دو واویوں کے بالائی حصہ کے ملنے کی جگہ۔

أَنْصَى إِنْصَاءَ الْمَكَانِ: (پانی) بہت سی والی ہونا (دیکھئے لفظ نصی)

إِنْصَى إِنْصَاءَ الشَّعْرِ: بال کا طویل ہونا۔

— الْحَبْلُ أَوْ الْأَرْضُ: پہاڑ یا زمین کا بلند ہونا — الشَّيْءُ: چمنا۔

النَّصِيَّةُ: ایک عمدہ قسم کا چارہ۔ واحد نَصِيَّةٌ ج أَنْصَاءُ ج أَنْصَاهِ: النَّصِيَّةُ: گردن کی بڑی ج اَنْصِيَّةُ۔

النَّصِيَّةُ: جسے نصی — مِنَ الْقَوْمِ أَوْ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا: برگزیدہ و عمدہ۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ نَصِيَّتِي" یہ میرا عمدہ مال ہے۔ النَّصِيَّةُ: بقیرہ ج نصی و ج أَنْصَاءُ وَأَنْصَاهِ۔

نَضَّ (ض) نَضًا وَ نَضِيضًا الْمَاءُ: تھوڑا تھوڑا بہتا رہنا۔ نَضَّ مَاءً: سامان کے بعد نقدی ہونا — الشَّيْءُ: ظاہر کرنا — الْقَطَائِرُ: جَنَاحِيهِ: پرندہ کا بازوؤں کو ہلانا — الْغَوْدُ: ککڑی سے چلنے میں دوسرے سرے پر پانی لگانا — الْقِرْوَةُ مِنَ شِدَّةِ الْعَمَلِ: مشک کا زیادہ بھر جانے سے پھلنا۔

نَضَّ (ض) نَضِيضًا الْأَمْرُ: ممکن ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا نَضَّ يَبْدِي مِنْهُ شَيْءٌ" یعنی مجھ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ "وَ تَخَذَ مَا نَضَّ لَكَ مِنْ دِينَ أَوْ نَعْمٍ" قرض یا قیمت سے جو کچھ آسانی سے جلدی وصول ہوئے لو۔

نَعَضَ الرَّجُلُ: بہت درہم و دینار والا ہونا — الشَّيْءُ: ہلانا۔

أَنْصَ وَ تَنْصُصُ الْحَاجَةَ: پورا کرنا۔

تَنْصُصُ وَ اسْتَنْصَصَ حَقَّهُ مِنْ فَلَانٍ: تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرنا۔ تَنْصُصُ فَلَانًا: برا بھلا بنانا۔ کرنا۔ آسان۔ اسْتَنْصَصَ الْمَعْرُوفُ أَوْ الْخَيْرُ: تھوڑا تھوڑا کر کے فائدہ حاصل کرنا۔

النَّضُّ - مع - درہم و دینار۔ کہا جاتا ہے "اسْتَنْصَلْتَهُ مِنْهُ نَضًا" اس نے اس سے نقد حاصل کیا۔ امر مکروہ۔ کہا جاتا ہے "أَنْتِي بِأَمْرِ نَضٍ" اس نے امر مکروہ کیا۔ رَجُلٌ نَضَّ اللَّحْمَ: کم گوشت والا آدمی۔

النَّاضُّ - فاء - درہم و دینار۔ کہا جاتا ہے "أَمْرٌ نَاضٌ" یعنی امر ممکن "وَمَاءٌ نَاضٌ" دیر تک باقی رہنے والا پانی۔

الْبِنَاضُ: تھوڑا تھوڑا فائدہ حاصل کرنا۔

النَّضَاخَةُ مِنَ الْمَاءِ وَ غَيْرِهِ: بقیرہ۔ تھوڑی سی چیز۔ نَضَاخَةُ الرَّجُلِ: مرد کا آخری پچہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَضَاخَةُ أَبِيهِ" وہ اپنے ماں باپ کا آخری لڑکا ہے۔

النَّضَاضُ: اسم مبالغہ مؤنث نَضَاخَةٌ۔

بَنُو نَضْوَضٍ: کنواں جس سے پانی تھوڑا تھوڑا نکلے۔

التَّضْيِضُ - مع - تھوڑا سا پانی وغیرہ ج نَضَاضٌ اور کہا جاتا ہے رَجُلٌ نَضِيضٌ اللَّحْمِ: کم گوشت والا مرد۔ "وَجَاءَ الْقَوْمُ بِأَقْصَى نَضِيضِهِمْ" قوم اپنی انتہائی جماعت تک کو لائی۔

التَّضْيِضَةُ: تھوڑی بارش۔ ج اَبْضَةٌ وَ نَضَايِضٌ اور کہا جاتا ہے "جَاءَهُ وَ بِأَقْصَى نَضِيضَتِهِمْ" لوگ آخری جماعت تک لائے "وَ اِبِلٌ نَضِيضَةٌ وَ نَضَايِضٌ" پیاسے اونٹ جو سیراب نہ ہوں۔

النَّضَايِضُ: گرم پتھر پر گوشت بھوننے کی آواز۔ واحد نَضِيضَةٌ۔

نَضَبَ (ن) نَضْبًا الْمَاءُ: جاری ہونا۔ بہنا۔ نَضَبَ عُمُرُهُ: ختم ہونا۔

نَضَبَ (ن) ض) نَضْبًا الْمَاءُ: پانی کا زمین میں اترنا۔ خشک ہونا — عَنِ الشَّيْءِ: کشادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے نَضَبَ عَنَهُ الْبَحْرُ: یعنی پانی خشک ہو گیا — الْخَيْرُ: کم ہونا — عَيْشُهُ: آگے کا دھنس جانا۔ نَضَبَتِ الْمَغَارَةُ: بیابان کا دورہ ہونا۔

نَضَبَ الْقَوْمُ: دُور ہونا — فَلَانٌ: مرنا۔ اور کہا جاتا ہے "نَضَبَ مَاءٌ وَ جُهِبَ" یعنی وہ بے شرم ہوا — فَلَانٌ الْقَثُوبُ: کپڑا اتارنا۔

نَضَبَ الْمَاءُ: پانی کا زمین میں جذب ہونا۔ نَضَبَتِ الثَّقَاةُ: اونٹنی کا دوڑہ کم ہونا۔

أَنْصَبَ الْقَوْمُ: مکان سے آواز نکلنے کے لئے تانت کو کھینچنا۔

النَّاصِبُ: فاء - عُدِيذٌ نَاصِبٌ: خشک شدہ تالاب۔ مَكَانٌ نَاصِبٌ: دُور کی جگہ ج نَضَبٌ۔ التَّنَضُّبُ: ایک خاردار درخت جس کی ککڑی سفید ہوتی ہے اور دیکھنے میں خشک معلوم ہوتی ہے اگرچہ تر ہی کیوں نہ ہو اور اس درخت پر گرگٹ بہت رہتے ہیں۔ ج تَنْصَابٌ۔

نَضِجَ (س) نَضَجًا الْقَمْرُ أَوْ اللَّحْمُ: پھل یا گوشت کا پکانا۔ صفت نَاضِجٌ وَ نَضِيجٌ (— وَ نَضِجَتْ) الثَّقَاةُ بَوْلِدِهَا: اونٹنی کا وقت ولادت گزار دینا اور بچہ نہ دینا۔

أَنْضَجَ الْقَمْرُ أَوْ اللَّحْمُ: پھل یا گوشت پکانا۔ اسْتَنْضَجَ الْكِرَاعُ أَيَّ يَدِ الشَّيْءِ: بکری کے پائے پکانا۔

النُّضُجُ وَ النَّضِجُ: پختل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَضِيجٌ الرَّأْيِ" یعنی وہ مضبوط رائے والا ہے وَ أَمْرٌ مُنْضَجٌ مضبوط معاملہ۔

الْمِنْضَاجُ: گوشت بھوننے کی جگہ۔

نَضَجَ (ف ض) نَضَجًا الْبَيْتُ بِالْمَاءِ: پانی چھڑانا — عَلَيْهِ الْمَاءُ: چھڑانا — الْجِلْدُ: کھال تر کرنا — عَطَشُهُ: پیاس بھگانا۔ آسودگی سے کم پینا — الْبَيْضُ الْمَاءِ: کھیت میں دانے کے لیے نہریا کنوئیں سے لانا — فَلَانًا بِالْتَنْبَلِ: تیر اندازی کرنا۔ نَضَجَ عَنْ نَفْسِهِ: بدرفت کرنا۔

نَضَجَ الرَّزْغُ: کھیت کا دانہ دار ہونا — الشَّحْرُ: پتے نکلنے کے لیے پھلنا — التَّلْحَلُ: پانی لانے والی اونٹنی سے پانی لاکر سیراب کرنا۔

نَضَجَ (ف) نَضَجًا وَ تَنْصَحًا الْإِنَاءُ: برتن کا ٹپکانا — الْفَرَسُ: پییدہ والا ہونا۔ نَضَحَتْ الْعَيْنُ: آنسو بہانا — السَّمَاءُ الْقَوْمُ: برسنا۔

أَنْضَجَ الرَّزْغُ أَوْ الشَّحْرُ: کھیتی نضج — عِرَضُ فَلَانٍ: آلودہ کرنا۔ خراب کرنا۔

نَاضِحٌ مُنَاضِحَةٌ عَنْ كَذَا: دِرَاعَتِ كَرَاتِ.
اِنْتَضَحَ الْمَاءُ عَلَيْهِ: پانی چمکنا (یا) —
اِسْتَضَحَ الْمُنَوِّضِي (وضوء کے بعد شرمگاہ پر
پانی چمکنا۔

تَنَضَّحَتْ وَالتَّضَحَّتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا۔
اِنْتَضَحَ مِنْ كَذَا: بیزار ہونا۔

التضح: ہم۔ پانی وغیرہ کا چمکنا۔ پانی جس سے
کھیت سیراب کیا جائے۔ التضح: برہ چیز جو پانی
کی طرح رقیق ہو۔ ج نضوح و انضحة۔
التضح: حوض۔ ج نضوح و انضاح۔
التضح: حوض۔ یعنی ج نضوح۔

التضاح: فا۔ اونٹ جس پر پانی سیراب کرنے
کیلئے لایا جائے۔ مؤنث۔ ناضحة۔ ج نواضح
بارش۔ پانی چمک کر سیراب کی ہوئی جگہ۔

التضاح: اسم مبالغہ۔ سمجھوروں کو سیراب
کرنے والا۔ سیراب کرنے والے اونٹوں کو کہانے
والا۔ مؤنث نضاحة فؤس نضاحة بالثبل:
اچھی طرح تیر چھکنے والی کمان۔

النضوح: ایک قسم کی خوشبو۔ فزبة نضوح
مکک جس سے پانی رستا ہو۔ فؤس نضوح و
نضيحة اچھی طرح تیر چھکنے والی کمان۔
التضاح: یعنی۔

المنضحة والمنضحة: پانی چمکنے کا آلہ۔
بزوارہ۔

نَضَحَهُ (ف) نَضَحًا: چمکنا۔ ترکنا۔ اور کہا
جاتا ہے "نَضَحَ الثَّبَلُ وَبِالتَّبَلِ فِي الْعَدْوِ اس
نے دشمنوں میں تیری بو چھانکی۔

نَضَحَ (ف) نَضَحًا وَنَضَحًا الْمَاءُ: پانی کا
چمکنا۔ اور کہا۔

نَاضِحَةٌ مُنَاضِحَةٌ وَنِضَاحًا: ایک دوسرے
پر چمکنا۔

اِنْتَضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءُ: پانی کا گرتا۔
اِنْتَضَحَ الْمَاءُ: پانی چمکنا۔

التضح: ہم۔ خوشبو کا نشان جو کپڑے میں پائی
رہ جائے۔

التضحة: بو چھان۔
التضاح: موسلا دھار بارش۔ عین نضاحة:
آنکھ والا پانی۔

المنضحة: پانی چمکنے کا آلہ۔ ج مناضح عوام
اسے مرشدة یا زشاشة کہتے ہیں۔

نَضَدَ (ض) نَضْدًا وَنَضْدًا: المتضاع سلمان
ترتیب سے رکھنا یا ڈھیر لگانا۔ صفت مفعولی
منضود و نضيد و منضد اور کہا جاتا ہے زائ
منضد یعنی مضبوط رائے۔

تَنَضَّدَتِ الْإِنْسَانُ وَنَحْوَهَا: راتوں کا
ترتیب سے ہونا۔
اِنْتَضَدَ الْقَوْمُ بِمَكَانٍ كَذَا: جمع ہونا۔ اور
نمہرنا۔

التضد: ترتیب سے رکھا ہوا ڈھیر لگایا ہوا سلمان
خانہ۔ تحت۔ بتہ بادل۔ عزت و شرافت۔ کہا جاتا
ہے "لَيْتَنِي فُلَانٌ نَضَدًا" فلاں کے بیٹوں کے لیے
شرافت ہے۔ شریف ج انضاد۔ انضاد القوم:
لوگوں کی جماعت اور ان کی تعداد۔ انضاد
الزجل: مرد کے شریف بچا اور ماموں۔ انضاد
الجبال او السحاب: بتہ پھاڑ یا بادل (—
والتضود) موٹی اونٹنی۔ ج انضاد و نضد۔

التضيدة: بھری ہوئی چیز۔ کبیر۔ ج تضائد۔
المنضدة: گمر کے سلمان وغیرہ کہنے کا ثبیل۔
نَضَرَ (ن) وَنَضَرَ (س) وَنَضَرَ (ك) نَضْرًا
نَضْرَةً وَنَضْرًا وَنَضْرًا وَنَضْرَةً: نَضْرًا
الزَّوْنِ او السَّجَرِ وَغَيْرَهَا: تھکتا ہوا۔ نرم و
نازک ہونا۔ سرسبز و شاداب ہونا۔ صفت ناضرو
نضرو و نضرو۔

نَضْرَةٌ (ن) نَضْرًا وَنَضْرَةً: تروتازہ ہونا۔
اِنْتَضَرَ: تروتازہ ہونا — السَّجَرِ: درخت کا
سبز ہونا۔ اِنْتَضَرَ اللَّهُ: تروتازہ ہونا۔
اِسْتَنْضَرَ الشَّيْءَ: تروتازہ پایا سمجھنا۔

التضور: ج انضار و انضور و النضار و
النضير و الانضير۔ چاندی۔ سونا۔ عموماً سونے کے
لیے مستعمل ہے۔ انضار: ہر چیز کا خالص۔ سونے
کا خالص جو ہر۔

النضار و البضار: جماد کا درخت اور بقول
بعض سیدھی شنبیوں والا لہبا جماد کا درخت برتن
بنانے کے لیے بہترین لکڑی۔ کہا جاتا ہے "قَدْحُ
نَضَارًا" یعنی عمدہ لکڑی کا بنا ہوا پیالہ۔

التضار: خوشصورت۔ نرم و نازک۔ کچھڑ۔

التضار من كل لون: گمر رنگ۔ کہا جاتا ہے
اِحْمَرُ نَاضِرًا وَاحْضَرُ نَاضِرًا۔

التضرة: نرمی و نازکی۔ خوبصورتی و رونق۔
روایت مندی۔ پھلایا ہوا سونا۔ کہا جاتا ہے
"تَعْرِفُ لِي وَجْهَهُمْ نَضْرَةَ التَّعْنِيمِ" یعنی ان
کے چہروں میں نعمت کی رونق معلوم ہوتی ہے۔

نَضْرُ الرَّجُلِ: مرد کی بیوی۔
نَضَفَ (ض) ن: تَضْفًا وَنَضَفَ (س) نَضْفًا
وَاِنْتَضَفَ الْقَصِيْلُ مَا فِي صِرَاعِ اَبِيهِ: اونٹ
کے بچے کا تمام دودھ جانا۔

نَضْفَةٌ (ن) نَضْفًا: خدمت کرنا۔ نَضَفَ
الْحِمَاةُ: گدھے کا گوز کرنا۔
اِنْتَضَفَ الْجَمَلُ: اونٹ کا دگی چلنا —
الزجل: بیش جنگلی پوربہ کہانا — الْجَمَلُ:
اونٹ کو دگی چلانا۔

النضف: ہم۔ جنگلی پوربہ۔
التضقان: دگی چال۔
النضف و التضييف: ٹپاک۔
الناضيف: فا (— و المنضف) بہت گوز
کرنے والا۔ ج مناضف۔

نَضَلَهُ (ن) نَضَلًا: تیر اندازی میں سبقت
کرنا۔ تیر اندازی ہی میں غالب ہونا۔
نَضَلَ (س) نَضَلًا: تیر اندازی میں سبقت
تھکانا۔

نَاضِلَةٌ نِضَالًا وَنِضَالًا: مَنَاضِلَةٌ تیر
اندازی میں مقابلہ کرنا۔ ناضل عنه: کسی کی
جانب سے دیرافت کرنا۔ کسی کی حمایت کرنا۔

اِنْتَضَلَهُ لَانْعَرُكَ: تھکانا۔
اِنْتَضَلَهُ: تھکانا۔ کہا جاتا ہے "اِنْتَضَلَ سَهْمًا
مِنْ كِتَابِيهِ" اس نے تیر کو ترکش سے نکالا۔
اِنْتَضَلَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ او سَهْمًا مِنَ
الْكُنَانِيَةِ: انتخاب کرنا۔ چننا۔ اِنْتَضَلَتِ الْاِبِلُ
فِي السَّيْرِ: چلنے میں اگلی ناکوں کو آگے پھینکانا۔

اِنْتَضَلَ وَتَكَاضَلَ الْقَوْمُ: تیر اندازی میں
مقابلہ کرنا۔ باہم ٹھکرنا۔
التضائل: فاتح تیر اندازی میں غالب۔ ج تضائل۔
التضليل: مصیبت۔ بلا و سختی۔

نَطْنُصُ الرَّجُلِ: بہت روپے پیسے والا ہونا
— لسانہ: حرکت دینا — جلاء ریح کرنا۔
النطناض والنطناضة: من الحيات:
زبان ہلانے والا سانپ۔ ایک جگہ میں نہ رہنے
والا سانپ۔ لی الفور ہلاک کرنے والا سانپ۔
نَصًا يَنْصُو نَصْوًا: السَيْفُ مِنْ غَمْدِهِ:
گھوار کو میان سے سوتنا — الْقَوْبُ عِنْدَهُ: کپڑا
اتارنا — الرَّجُلُ مِنْ قَوْبِهِ: ننگا کرنا —
الْبِلَادُ: طے کرنا۔ نَصًا الْجُرْحُ: زخم کی سوجن
ارتنا — المَاءُ يَأْتِي كَالْمَجْدِبِ هَوَا: السَيْفُ:
گھوار کا پار ہونا — نَصْوًا أَوْ نَيْضًا: الفَرَسُ
الْحَيْلُ: آگے بڑھ جانا — نَصْوًا وَ نَصْوًا:
الْخِصَابُ: رنگ اتارنا۔
أَنْصَى أَنْصَاءَ الْبَعِيضِ: اُونٹ کو دلا کرنا۔
الْقَوْبُ: کپڑا بوسیدہ کرنا — فَلَانًا: دولا جانور
دینا۔
نَعْنَى نَعْنِيَةً: قُوْبُهُ عِنْدَهُ: کسی کا کپڑا اتارنا۔
نَعْنَى الْبَعِيضِ: اُونٹ کو دولا کرنا۔
إِنْصَى أَنْصَاءَ السَّيْفِ: گھوار کو میان
سے سوتنا — الْقَوْبُ: کپڑا بوسیدہ کرنا۔
النَّصُو: دولا جانور مَوْنُثُ نَصْوَةً: بوسیدہ کپڑا۔
کثرت تیر اندازی کی وجہ سے خراب شدہ تیر۔
باریک تیر۔ لگام کالوہاجِ الْأَنْصَاءِ:
النَّصَاوَةُ: مِنَ الْخِصَابِ: چھڑایا ہوا
خضاب۔ کہا جاتا ہے "أَعْطِنِي نَصَاوَةَ
جِنَائِكُ" عضو سے حنا کے چھڑائے ہوئے کو
مجھے دو۔
النَّصِي: دولا جانور۔ بغیر یہ بیان اوپر کے تیر —
مِنَ السَّهْمِ: پر اور یہ بیان کے درمیان کا حصہ ریح
آنصیة۔
نَعْنَى يَنْصِي نَعْنِيًا السَّيْفِ: گھوار سوتنا
— الْقَوْبُ: کپڑا اتارنا (— وَأَنْصَى
وَأَنْصَى الْقَوْبُ: کپڑا بوسیدہ کرنا۔ پر اتارنا۔
نَطْلَانُ نَطْلَانُ الشَّيْءِ: بانہ ہٹا۔ کھینچنا۔
نَطَّ (ض) نَطًّا: کپڑا اتارنا — فِي الْأَرْضِ
جَانًا: — نَطَّيْنَا بَهَا: چاندنا۔ اچھلنا۔
النَّطْلَاطُ: بک بک کرنے والا۔ بہت سفر کرنے
والا۔ کودنے والا۔ لغو دعویٰ کرنے والا۔

النَّطِيظُ: مَع: مَكَانٌ نَطِيظٌ: زور کی جگہ
أَرْضٌ نَطِيظَةٌ: زور والی زمین۔
عَقِبَةُ نَطْلَاءُ دُورَى كِهَانِي:
الآنط: دُورِ كَاسْتَرْجِ نَطْلُظُ:
نَطْلِيَّةُ (ن) نَطْلِيَّةُ أَنْطَلِيَّةُ: انگلی سے کان پر مارنا۔
فَاطِمَةُ مَنَاطِلِيَّةُ: براگینتہ کرنا۔ اکسانا۔ بھگڑا کرنا۔
أَنْطَلَبُ أَذُنَهُ: انگلی سے کان پر مارنا۔
النَّاطِلِيَّةُ: چھٹنے کا سوراخ۔ حِجْ تَوَاطِبُ:
النَّطَابُ: سر۔ گردن کی رگ۔
الْمَنْطَبُ وَالْمَنْطَبَةُ: چھتانا۔
الْمَنْطَلِيَّةُ: بیوقوف۔
نَطْحَةُ (ف ض) نَطْحًا النَّوْزُ وَ نَحْوُهُ: تیل کا
سینگوں سے مارنا۔ نَطْحَ فَلَانًا: دُورِ کرنا۔ ہٹانا۔
نَاطِحَةٌ نَطْحًا حَاوٍ مَنَاطِحَةٌ: سینگوں سے مارنا۔
إِنْتَطَحَ وَ تَنَاطَحَ الْكَبْشَانِ: مینڈھوں کا ایک
دوسرے کو سینگ مارنا۔ تَنَاطَحَتِ الْأَمْوَاجُ أَوْ
الشَّيْئُولُ: موج یا سیلاب کا آئیں میں ٹکرنا۔
النَّاطِحُ: فَا: پرند یا وحش جانور جو سامنے سے
آئے اور یہ "قَبْعِد" کے خلاف ہے۔ کہا جاتا ہے
"مَالَةٌ نَاطِحٌ وَلَا خَائِظٌ" یعنی اس کے پاس کچھ
نہیں۔ نَاطِحٌ سے مراد جھیر بکری، تیل اور خَائِظٌ
سے اُونٹ النَّاطِحُ: منازل قمر میں سے دو
ستاروں کا نام۔
النَّطْحُ: مَع: مَنَازِلُ قَمَرٍ مِنْ دُورِ سِتَارِ
تَامِ:
النَّوْاطِحُ: سختیاں۔
النَّطْحَةُ: نَطْحُ كَالِاسْمِ مَرَّةً لِزَائِي:
النَّطْحُ: سینگ مارا ہوا۔ سینگ مارنے سے مرا
ہوا۔ مَحْوَسٌ: گھوڑا جس کی پیشانی میں دو دائرے
ہوں۔ مَوْنُثُ نَطِيحَةٌ: حِجْ نَطْلِيحِي وَ نَطْلَانِيحِ:
النَّطْلَاحُ: بہت سینگ مارنے والا۔ سینگ مارنے
کا عادی۔
نَطَّرَ (ن) نَطَّرًا أَوْ نَطَّرَةً: الْكُرْمُ أَوْ الرَّزْغُ أَوْ الْغُورُ
یا کھیت کی کھپالی کرنا۔ باغبانی کرنا۔
النَّطَّرَةُ: مَع: باغبانی کا پیشہ۔
النَّطَّارُ وَ النَّطَّارُ: باغبان۔ اُغْمُورُ یا کھیت کا
کھپان۔ حِجْ نَطَّارٌ وَ نَطَّرٌ قَوْ نَوَاطِيزٌ وَ نَطَّرَاءُ:
النَّطَّارُ: اُچکا (جو کھیت میں پرندوں اور جانوروں

کو ڈرانے کیلئے کھڑا کیا جاتا ہے)
نَطَّرُونَ: بورہ ارمنی۔

نَطْسُ (س) نَطْسًا: عالم ہونا۔ ماہر ہونا۔

تَنَطَّسَ: گفتگو اور لباس وغیرہ میں احتیاط کرنا۔

امور میں غور و فکر کرنا اور خوب تحقیقات کرنا۔ کہا

جاتا ہے "تَنَطَّسَ الْأَخْبَارَ وَعَنِ الْأَخْبَارِ" یعنی

اس نے تحقیقات کی۔

النطس والنطس والنطس: عالم گفتگو اور

لباس وغیرہ میں احتیاط کرنے والا۔

النطيس والنطيس والنطيس: عالم ماہر

طیب۔

النطس: ماہر اطباء۔

النطسة: بہت احتیاط کرنے والا۔

النطس: جاسوس۔

نَطَّعَ نَطْعًا وَ انْتَطَّعَ وَ اسْتَنْطَعَ لَوْنُهُ: رنگ

ختم ہونا۔

تَنَطَّعَ فِي الْكَلَامِ: غلو کرنا۔ تالو سے بولنا۔

— فِي شَهْوَاتِهِ: مبالغہ کرنا — فِي عَمَلِهِ: ماہر

ہونا — الرَّجُلُ: چمڑے کے دسترخوان پر کھانا

رکھنا۔ خوب سیر ہو کے کھانا۔

النطع والنطع والنطع: چمڑے کا

فرش جو مجرم کو قتل کرنے کے لیے بچھایا جائے حِجْ

النطع والنطع:

جیسا ہوتا ہے۔ حِجْ نَطْعُ: اور اسی سے حرف

نَطْعِيَّةٌ دَطَّيْنُ:

نَطْعِيَّةٌ دَطَّيْنُ:

النطع: گفتگو میں تکلف فصاحت ظاہر کرنے

والا۔

النطاع: خاص رنگ۔ کہا جاتا ہے بیاض

نَاطِعِ:

يَطَّاعُ الْقَوْمُ: قوم کی زمین۔ قوم کا علاقہ۔ کہا

جاتا ہے "وَطَّئْنَا نَطَّاعَ بَنِي فَلَانٍ" ہم نے بنی

فلان کے علاقے کو طے کیا۔

النطاع: کلام میں بہت غلو کرنے والا۔ جلد

ساز۔ ہوشیاری سے کھانے کو دسترخوان پر پھینے

والا۔ حِجْ نَطَّاعُونَ:

النطاعة: لقمہ جس کا نصف حصہ کھایا جائے

اور نصف دسترخوان پر چھوڑ دیا جائے۔

نَطْفَ (ن ض) نَطْفًا وَنَطْفًا وَنَطْفَانًا وَ نَطْفَانًا وَ نَطْفَانًا
نَطْفَانًا الْمَاءُ تَمُورًا تَمُورًا يَابَانِيًّا هَسَا — الْقَوْنَةُ :
مَلِكٌ كَالْحِنَاءِ — الْمَاءُ يَابَانِيًّا هَسَا —

نَطْفَةٌ وَ نَطْفَةٌ وَ نَطْفَةٌ بِدَكَرِيٍّ كِي تَمْت
لَكَانَا — حَيْبُ لَكَانَا — نَطْفَةُ الْمَرْأَةِ : عَمُورَتُ كَيْ كَان
مِنْ يَابَانِيًّا —

نَطْفُ (س) وَ نَطْفُ نَطْفًا وَ نَطْفًا وَ نَطْفَةً
عَيْبٌ وَارِهُونَا — عَيْبٌ وَدَكَرِيٍّ كَالِزَّرَامِ لَكَانَا —
نَطْفُ الشَّيْءِ : فَاسِدٌ هُونَا — خَرَابٌ هُونَا — نَطْفُ
الزُّجْلِ : بِدَعْشِيٍّ وَالَا هُونَا —

نَطْفُ (س) وَ نَطْفُ : عَيْبٌ وَارِهُونَا — مِنْ كَذَا
پَرِيهِزُ كَرْنَا — نَطْفُ الْمَرْأَةِ : عَمُورَتُ
كَالِيَابَانِيًّا —

النَطْفُ : مِمَّ — عَيْبٌ — يَرَأَى — فَسَادٌ —

النَطْفَةُ : صَافِيَانِيًّا — تَمُورًا يَابَانِيًّا زَادَهُ — سَمْدَرٌ — مَرُو
يَا عَمُورَتُ كَالنَّفِثِ : نَطْفٌ وَ نَطْفٌ (و —
النَطْفَةُ) تَمُورًا يَابَانِيًّا جُوذُولٌ يَا مَلِكٌ مِثْلُ بَاقِي رَه
جَاءَ — النَطْفَةُ : بَرْدٌ جِيءُ كِي جِيءُ سِيءُ لِيءُ —

النَطْفَتَانِ : دُوسَمْدَرٌ (مُخْرُومٌ وَ مَحْرُومِيْنٌ يَا مَحْرُ
شَرْقٌ وَ مَحْرُوبٌ) —

النَطْفَةُ وَ النَطْفَةُ : بَلِيٌّ — اَبْدَارُ مَوْتِيٍّ جِ نَطْفُ
النَطْفُ : بَلِيءٌ — شَكِيٍّ اَدَى —

النَطْفُ : بَارَشٌ وَالِيٌّ — كَمَا جَاءَ فِي "اَلنَّبْئَةِ"
نَطْفُ" مَجْ تَكْ بَارَشٌ وَالِيٌّ رَاتٌ —

النَطْفُ : رِيُوِيٌّ — سَمْدَرٌ —
النَطْفِيٌّ : رِيُوِيٌّ يَبِيحُ وَالَا —

نَطْفُ (ض) نَطْفًا وَ نَطْفًا وَ نَطْفًا وَ نَطْفًا —
الْكِتَابُ : وَاشْرَحَ يَابَانِيًّا —

نَطْفَةٌ : مَعْنُو كَرْنَا : كِي كِي پَنَّا بَارِهُونَا — كِي كِي كَر
مِثْلُ پَنَّا بَارِهُونَا — نَطْفُ الْمَاءِ الْأَكْمَةُ وَ غَيْرُهَا :
يَابَانِيًّا كَالِيءِ كَيْ وَسَطًا تَكْ يَابَانِيًّا —

نَطْفَةٌ : مَعْنُو كَرْنَا —
نَطْفَةٌ : مَعْنُو كَرْنَا —

نَطْفًا نَطْفًا وَ نَطْفًا : يَابَانِيًّا مَعْنُو كَرْنَا —

نَطْفُ وَ نَطْفُ وَ نَطْفُ : كَرْمِثٌ پَنَّا بَارِهُونَا
— الْمَرْأَةُ : عَمُورَتُ كَا كَرْمِثٌ پَنَّا بَارِهُونَا —
الْأَرْضُ بِالْجَبَالِ : پَهَارُودُ سِيءُ گُھرا هُونَا
إِنَطْفُ بِقَوْنِهِ : طَاوَرُ قَوِيٌّ هُونَا —

الزُّجْلِ : مَعْنُو كَرْنَا — عِلْمٌ مَطْنُ حَاصِلٌ كَرْنَا —
قَوْنَةُ : بَغِيرُ سَوَارِ هُونَا مَعْنُو كَرْنَا —
إِنَطْفُهُ : مَعْنُو كَرْنَا — بُولُنَا كَرْنَا —

النَطْفُ : مِمَّ — اسْ كَالِاسْتِمَالِ نَطْفُ خَارِجِيٌّ يَابَانِيًّا
يَعْنِي مَعْنُو كَرْمِثٌ هُونَا هُوَا هُوَا نَطْفُ دَاخِلِيٌّ يَابَانِيًّا
فَهْمٌ وَادِرَاكٌ كَلِمَاتٌ پَرِ مِمَّ —

النَطْفَةُ : نَطْفُ كَالِاسْمِ مَرَّةً — كَمَا جَاءَ فِي "نَطْفُ
نَطْفَةً وَاجِدَةً" وَهِيَ اَبَى بُولُ بِلَا —

النَطْفُ : بُولُنَا وَالَا —
النَطْفُ : كَرْمِثٌ — جِيءُ — كَمَا جَاءَ فِي "عَقْدُ فُلَانٍ"

حَبْكُ النَطْفِ : يَعْنِي فُلَانٌ مَخْصُ جَائِسُ كَلِيءِ يَا
كَامُ كَرْمِثُ كَلِيءِ مَسْتَعِدٌّ هُوَا النَطْفُ : كَبِيْرُ كَا
اَبِيءُ كَلْمَا جَسُ كُو عَمُورَتِي كَرْمِثٌ بَارِهُونَا هُوَا اسْ
كَالِيَابَانِيِّ حَصْرٌ نَطْفُ حَصْرٌ وَارِهُونَا زَمِيْنٌ تَكْ
لَكَارِهُونَا هُوَا نَطْفُ —

نَطْفُ النَطْفِ : جُوَزَا كِي دَرْمِيَانُ كَلِيءِ تَمِيْنُ
سِتَارِيءُ جَمِ كُو عَرَبٌ نَطْفُ مِمَّ كِي تَمِيْنُ تَمِيْنُ
اِنَطْفُ وَ اِنَطْفُ كَلِيءِ نَطْفُ مِمَّ هُوَا —

النَطْفَةُ : پَرِ پَرِ — اسْ وَجِيءُ سِيءُ كِي وَهِيءُ كَلِيءِ
هُونَا كُو بَلَا هُوَا —

النَطْفُ : فَا — عَرَبٌ كَا قَوْلُ "اَلْاِنْسَانُ حَيْرَانٌ"
نَطْفُ" يَعْنِي اِنْسَانٌ عَاقِلٌ هُوَا — كِتَابُ نَطْفُ :
وَاشْرَحَ كِتَابُ —

النَطْفَةُ : النَطْفُ كَا مَوْتٌ — كَرْمِثُ النَطْفِ
النَطْفَةُ : نَطْفُ اِنْسَانِيًّا —

النَطْفُ : مِمَّ — مَعْنُو كَرْمِثُ — وَارِهُونَا كَلِيءِ
كَلِيءِ مِمَّ بُولَا جَائِسُ هُوَا — كَمَا جَاءَ فِي "سَجَعَتْ
مَطْنُ الْقَلْبِ : عِلْمٌ مَطْنُ : اَبِيءُ عِلْمٌ عَمَلِيٌّ كَا نَامُ
جَمِ كُو مِيْرَانٌ مِمَّ كِي تَمِيْنُ هُوَا — وَارِهُونَا وَهِيءُ عِلْمٌ هُوَا جُو
ذَهْنُ كُو خَطَا عِنِي النَطْفُ سِيءُ —

النَطْفُ : عِلْمٌ مَطْنُ جَائِسُ وَالَا —
النَطْفُ وَ النَطْفَةُ : پَنَّا كُو كَرْمِثٌ بَارِهُونَا جَائِسُ —

جِ مَطْنُ : اَبِيءُ مَطْنُ : مِمَّ كَا اِسْتِمَالُ كَلِيءِ
هُوَا — كِي تَمِيْنُ مَطْنُ : مِمَّ پَنَّا بَارِهُونَا جَائِسُ
مِذْرَعَةٌ سِيءُ مَطْنُ وَ اَبِيءُ مَطْنُ سِيءُ مَطْنُ —

نَطْفُ : عِلْمٌ مَطْنُ حَاصِلٌ كَرْنَا — وَارِهُونَا سِيءُ
بَعْضُ كَا قَوْلُ هُوَا "مِمَّ مَطْنُ لَقَدْ تَمَطَّنُ"
جَمِ نَطْفُ مَطْنُ سِيءُ مَطْنُ مَطْنُ مَطْنُ مَطْنُ —

النَطْفُ : اَبِيءُ سِتَارِيءُ تَمِيْنُ سِتَارِيءُ كَلِيءِ نَامُ — وَارِهُونَا
النَطْفُ : اَبِيءُ سِتَارِيءُ كَلِيءِ نَامُ هُوَا —
النَطْفُ وَ النَطْفُ : مِمَّ —

النَطْفُ : مِمَّ پَنَّا بَارِهُونَا كَلِيءِ — النَطْفَةُ
مِنْ الْمَعْنُ : كَرْمِثٌ سَفِيْدِيٌّ وَالِيٌّ كَرْمِثُ —
النَطْفُ : عَالِيٌّ مَرْتَبَةٌ — كَرْمِثُ قَدْرٌ — وَارِهُونَا كَمَا جَاءَ
فِي "جَاءَ مَطْنًا جِهَانًا" يَعْنِي وَهِيءُ بَغِيرُ سَوَارِ
هُونَا مَعْنُو كَرْمِثُ بَارِهُونَا —

النَطْفُ عِنْدَ الْأَهْوَليِّينَ : مَعْنُو مَخَالِفُ
كَلِيءِ خِلَافٌ —
نَطْفُ (ن) نَطْفًا وَ النَطْفُ : نَطْفُ (و) وَ نَطْفُ (و) —
رَاسُ الْعَيْلِ بِالنَطْفِ : تَرِيْدَا كَرْنَا — اَبِيءُ اَبِيءُ
دُوَا مِثْلُ جُوَشٌ دِيءُ هُوَا مِمَّ كَرْمِثُ يَابَانِيًّا كَرْنَا —
إِنَطْفُ مِنَ الزُّجْلِ : مَلِكٌ سِيءُ تَمُورًا يَابَانِيًّا كَرْنَا يَابَانِيًّا
يَعْنِي —

النَطْفُ : مِمَّ — اَبِيءُ كَا جَعْلَا — تَمُورًا دُوَا (و —
وَالنَطْفُ) مِمَّ هُوَا شَكُ اَبِيءُ خُوَدُ جُوَدُ
شَرَابٌ نَطْفُ كَلِيءِ جُوَدُ نَطْفُ جَائِسُ — النَطْفُ :
شَرَابٌ كَابِيءِ —

النَطْفَةُ وَ النَطْفُ : شَرَابٌ يَابَانِيًّا يَابَانِيًّا وَغَيْرُهَا
مَعْنُو نَطْفُ : النَطْفُ : فَضْلٌ جُوَدِيٌّ مِثْلُ بَاقِي رَه
جَائِسُ — كَمَا جَاءَ فِي "مَطْنُ مِثْلُ مِثْلُ مِثْلُ"
نَطْفُ سِيءُ كَلِيءِ مِمَّ حَاصِلٌ مِمَّ كَلِيءِ —

النَطْفُ وَ النَطْفُ : شَرَابٌ يَابَانِيًّا يَابَانِيًّا وَغَيْرُهَا
مَعْنُو نَطْفُ : النَطْفُ : فَضْلٌ جُوَدِيٌّ مِثْلُ بَاقِي رَه
جَائِسُ — كَمَا جَاءَ فِي "مَطْنُ مِثْلُ مِثْلُ مِثْلُ"
نَطْفُ سِيءُ كَلِيءِ مِمَّ حَاصِلٌ مِمَّ كَلِيءِ —

النَطْفُ وَ النَطْفُ وَ النَطْفُ وَ النَطْفُ : شَرَابٌ
دُوَا وَغَيْرُهَا نَطْفُ كَا كُوَزَةٌ — النَطْفُ
وَ النَطْفَةُ : مِمَّ مِثْلُ — اَبِيءُ مِثْلُ —
ذُوَلُ جِ نَطْفُ —

النَطْفَةُ : مِمَّ مِثْلُ —
النَطْفُ : يَابَانِيًّا جَمِ مِثْلُ دُوَا جُوَشٌ دِيءُ وَارِهُونَا
نَاوَفٌ كُوَا سِيءُ دَهَارِيْنُ —
النَطْفُ : شَرَابٌ كَلِيءِ كَلِيءِ —

نَطْفُ الشَّيْءِ : مَعْنُو كَرْمِثُ — الزُّجْلِ : لَبِيءُ سِرْ
وَالَا هُونَا — وَ النَطْفُ : دُوَا هُونَا —

النَطْفُ وَ النَطْفُ وَ النَطْفُ : لَبِيءُ قَدْرُ وَالَا —
جِ نَطْفُ وَ نَطْفُ وَ نَطْفُ —

نَطْفُ نَطْفُ نَطْفُ : نَطْفُ نَطْفُ نَطْفُ —
النَطْفُ : كَلِيءِ هُوَا سِيءُ كَلِيءِ كَلِيءِ —
النَطْفُ : دُوَا هُونَا — عِنْدَ فُلَانٍ : چِيءُ هُوَا جَائِسُ —

ناظی مناظرة الرُّجُل: باہم نزاع کرنا۔
آنظی: دینا۔

تناظی القوم: ایک دوسرے سے بڑھنے کی
کوشش کرنا۔ تناظوا الکلام: آپس میں گفتگو
کرنا۔

التظور: ڈوری۔

التظلی: ڈور۔ کہا جاتا ہے "ظریق تظلی" ڈور
کا راستہ (— والمنظور من العزلی: کاتے
ہوئے سوت کا تانیا ہوا۔

التظافة: کچی گھور کا خلاف یا ذھن ج اظفاء۔

نظور (ن) و نظور (س) نظور او منظر او منظرۃ
و تظاؤرا و نظورانا۔ ءو الیہ: دیکھنا۔ غور سے
دیکھنا۔ (نظور (ن) نظورا فی الامر: سوچنا۔ فکر
کرنا۔ اندازہ کرنا — الشئ: انتظار کرنا —
بین الناس: حکم کرنا اور فیصلہ کرنا — للقوم:
رحم کرنا اور مدد دینا — فلان: متوجہ ہونا۔ دیر
کرنا — فلانا الذین: سہلت دینا۔ (آنظور میں
ایک لغت ہے) — الشئ: سہلت سے بچنا
— فلان: کانہ ہونا اور کہا جاتا ہے "آنظور لنی
فلان" میرے لیے فلاں کو طلب کرو۔ و ذاری
تظور ذارۃ" میرا گھر اس کے گھر کے مقابل ہے
"و نظور الذہور الی بین فلان" زمانے نے بنی
فلاں کو ہلاک کر دیا۔

ناظرة مناظرة: مشابہ ہونا۔ بحث کرنا۔ ناظر
العینش الألفین: قریب پہنچنا — فلان
بفلان او الشئ بالشئ: مشابہ بنانا اور کہا جاتا
ہے "ذاری تناظر ذارۃ" میرا گھر اس کے گھر
کے مقابل ہے۔

آنظرة الذین: ادائیگی قرض کیلئے سہلت دینا۔
آنظور فلانا یفلان: مشابہ بنانا — الرُّجُل:
سوچنے کا موقع دینا۔ سہلت سے بچنا۔

تظرة: آنکھ سے بغور دیکھنا۔ دیر کرنا۔ سہلت
دینا۔ تظور فلان: انتظار کی ہوئی چیز کی امید
رکھنا۔

تناظرة الی الامر: باہم کام میں مشقت اٹھانا۔
بحث کرنا۔ تناظر الذان: ایک دوسرے کے
مقابل ہونا۔ تناظر القوم: ایک دوسرے کو
دیکھنا۔

انتظرة: انتظار کرنا۔ امید رکھنا۔ توقع رکھنا۔ دیر
لگانا۔

استنظرة: انتظار کرنا۔ سہلت طلب کرنا۔

النظر: مہ۔۔ نگاہ۔ دانائی۔ علم النظر
والاستدلال: علم کلام۔ اور کہا جاتا ہے "فہی
هذا الامر نظور" عدم تسور کی وجہ سے یہ امر عمل
غور ہے۔ "و بیننا نظور" ہمارے درمیان اتنی
قربت ہے کہ نگاہ پہنچ سکے "و نظور الی کذا
بالتظر الی کذا" یعنی فلاں کے لحاظ سے۔ التظور:
ہمانے۔

البظر: مشابہ۔ مانند۔

التظرة: نظور کا اسم مرہ۔ ایک نگاہ۔ ہیئت۔ بری
ہیئت و عیب۔ رحمت۔ مہربانی۔ کہا جاتا ہے "تظرة
بعین النظرۃ" اس نے اس کو مہربانی کی نگاہ سے
دیکھا۔

التظرة: سہلت۔ معاملہ میں تاخیر۔

التظوری: نظری کی جانب منسوب۔

استدلالی علوم کی تقسیم میں نظری کا اطلاق اس علم
پر ہوتا ہے جو عمل سے تعلق نہ رکھتا ہو اور اس
کے مقابل کو عملی کہتے ہیں۔

التظرة فی الہندسة: وہ قضیہ جو صحت ثبوت
کیلئے دلیل کا محتاج ہو۔ ج نظریات۔

البطار و البطارۃ: فراست۔ دانائی۔

الناظر: نا۔ آنکھ کی پتلی۔ و الناظر عند
المؤیدین: کسی ادارہ کا ناظم۔ جیسے ناظر
خارجہ و ناظر مالیہ۔ ج نظار۔ الناظر: پیشانی
سے ناک کے تھنوں تک کی ہڈی۔ وہ امین آدمی
جس کو بادشاہ کسی مقام کے لوگوں کے معاملات کی
تحقیقات کے لیے بھیجے۔ اور کہا جاتا ہے "ہو
شدید الناظر" یعنی وہ قسمت سے بری ہے اس
لیے کہ آنکھ ملا کر بات کرتا ہے۔ الناظران: ناک
کے دونوں پہلوؤں کی دو رگیں۔

نظار: اسم فعل۔ بروزن نزال و توالک۔ بمعنی
انتظر۔

الناظر و الناظور: اگور یا کھیتی کا محافظ۔
الناظور: سردار قوم۔

الناظرة: الناظر کا مؤنث۔ آنکھ ج ناظر
التواظر: سر کی رگیں جو آنکھ سے ملی ہوئی ہیں۔

التظار: تیز دیکھنے والا۔ کہا جاتا ہے "فوق
نظار" ہلاک تیز خاطر بلند اطراف گھورا۔

التظارة: ناظرین۔ موقعہ جبک کے تماشائی
التظارة عند المؤمنین: دور بین۔

التظور و التظورة و التظيرة و التناظورة
قوم کا سردار (بذکر و مؤنث واحد جمع) التظور:
سمات سے غفلت نہ برتنے والا۔

التظير: مثل و مانند۔ اور کہا جاتا ہے "فلان
تظير فلان" یعنی فلاں فلاں کے مطابق ہے۔ ج
نظراء مؤنث تظيرة ج تظایر۔ تظایر القوم:
قوم کے شرف و افاضل۔

تظيرة: القوم او العینش و تظور تھم:
دیدبان۔

المنظر: دیکھنے کی جگہ چاہے خوش نام ہو یا
بدنام۔ اور کہا جاتا ہے "فلان فی منظری و
مستمعی" فلاں ایسی جگہ میں ہے کہ میں اس کو
دیکھ سکتا ہوں اور اس کی باتیں سن سکتا ہوں۔

"و کنت عن هذا المقام بمنظر" یعنی میں
اس مقام سے علیحدہ تاج مناظر المناظر: بلند
زمینیں۔ علم المناظر: وہ علم جس سے اشیاء
کی مقدار یا اعتبار قریب و بعد کے پیمانہ سکیں۔

المنظرة: مہ۔ دیکھنے کی جگہ چاہے خوش نام ہو
یا بدنام۔ دیکھنے جمانے کی بلند جگہ۔ المنظرۃ: قوم
جو کسی چیز کی طرف دیکھنے والی ہو۔

المنظری و المنظرانی: خوش نما۔

المناظر: نا۔ مثل۔

المناظر: آئینہ۔ ج مناظرین۔

المنظور: شخص وہ شخص جس کی خبر کی امید رکھی
جائے۔ نظریہ لگا ہوا۔

المنظورة: المنظور کا مؤنث۔ مصیبت
امراة منظورة: عیب دار عورت۔

نظف (ک) نظافه الشئ: صاف سمرا ہونا۔
باروق و حسین ہونا۔ صفت نہ کر نظیف صفت
مؤنث نظيفة ج نظفاء۔ کہا جاتا ہے "فلان
نظیف السراويل" فلاں پاک دامن ہے و
نظیف الاخلاق: مہذب۔

نظف الشئ: صاف کرنا پاک کرنا۔
تنظف الشئ: صاف سمرا ہونا۔ الرُّجُل:

بمختلف صاف تھرا بننا۔ برائیوں سے دور ہونا۔
إِنْتَظِفَ الْفَيْصِيلُ مَا فِيهِ ضَرَعُ أَهْبَةِ: اونٹ
کے بچے کا تھن سے سارا دودھ پی لیتا۔

إِسْتَنْظَفَ صَافٌ تَهْرًا طَلَبَ كَرِيمًا — الْوَالِي
الْحَوَاجُ: پورا اصول کر لیتا — فَلَانِ الشَّيْءُ:
سب لے لیتا — الْفَيْصِيلُ مَا فِيهِ ضَرَعُ أَهْبَةِ:
اونٹ کے بچے کا تھن سے سارا دودھ پی لیتا۔

نَظَّمَ (ض) نَظْمًا وَنَظَامًا الْوَلُؤُؤُ وَنَحْوَهُ:
موتی پروتا: آراستہ کرنا۔ موزوں کرنا — الشَّيْءُ
إِلَى الشَّيْءِ: ترتیب دینا۔ کسی چیز کو کسی چیز سے
جوڑنا — الْأَمْرُ: بہا کرنا۔ قائم کرنا۔

نَظَّمَ الْوَلُؤُؤُ وَالشَّعْرَ: بمعنی نظم (پروتا۔
موزوں کرنا)

نَظَّمَتْ وَانظَمَتِ السَّمَكَةُ أَوْ الدَّجَاجَةُ:
مچھلی یا مرغی کا نڈے والی ہونا۔

تَنْظَمُ وَانظَمَ وَتَنظُمُ وَانظَمَ الْوَلُؤُؤُ وَنَحْوَهُ مَوْتِي
کا پرو دیا جانا۔ ترتیب وار ہونا۔ تَنْظَمُ وَانظَمَ
الْأَمْرُ: درست ہونا۔ وَانظَمَ الصَّيْدُ: شکار کو
چمید کر پیا کر دینا۔ تَنظَمَتِ الصَّخُورُ: پتھری
چٹانوں کا ایک ساتھ ملا ہوا ہونا۔

النَّظْمُ۔ مہ۔ نڈی دل یا نڈیوں کی ایک قطار۔
ترتیب دیا ہوا موزوں کلام اور اس کے مقابل کو
نثر کہتے ہیں۔ النَّظْمُ: بعض ستاروں پر اطلاق ہوتا
ہے جیسے تَرْيَا يُظَافِي الْجَوْزُ أَيْ الْوَالِدُ بِنِزَانِ

النِّظَامِ۔ مہ۔ موتیوں کی لڑی کا وہاگا۔ جَنْظَمُ وَ
النِّظْمَةُ وَانظَمَ النَّظْمُ: طریقہ و عادت۔ کہا
جاتا ہے "مَا زَالَ عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ" وہ ہمیشہ
ایک طریقہ پر رہا۔ نِظَامُ الْأَمْرِ: سرایہ۔ معاملہ۔
النِّظَامُ مِنَ الرَّمْلِ: ریت پر جما ہوا اور نہ لگا ہوا۔
النِّظَامُ مِنَ الْحِزَابِ وَالتَّخْلِجِ وَنَحْوِهَا: ایک
قطار نڈیوں یا درخت خرمائی۔

النِّظَامَانِ وَالنِّظَامَانِ وَالنِّظْمَانِ مِنَ
السَّمَكَةِ أَوْ الصَّيْبَةِ: ڈم سے کان تک کی دو
دھاریاں۔ جَنْظَمُ النَّظْمِ:

النِّظَامُ: مچھلی یا گدھ کے انڈوں کی قطار۔ لڑی کا
وہاگا — مِنَ الرَّمْلِ: ریت پر جما ہوا اور نہ لگا
ہوا۔

النِّظَامُ بَسْتٍ پرتے والا۔

التَّنْظِيمُ۔ موزوں شعر و نثر۔ پھاڑی راستہ جس
میں چشمے قریب قریب ہوں۔
الْمَنْظُومُ۔ مہ۔ شعر۔ اور یہ منشور کے خلاف
ہے۔

الْمَنْظِمُ۔ ترتیب دینے کی جگہ۔ جَنْظَمُ
التَّحِجِّ۔ کمزور مرد۔

النِّصَاعُ۔ سلام و نازک گھاس۔ واحد نِصَاعَةٌ۔

نَعَبْتُ (ف ض) نَعْبًا وَنَعَابًا وَنَعَبِيًّا وَنَعَبَانًا
تَعَبَانًا الْفَرْابُ: کتوے کا لاؤں کاؤں کرنا۔ جدائی کا
خوف دلانا — الْمُؤَذِّنُ: گردن لمبی کر کے اذان
دینا۔

نَعَبْتُ (ف) نَعْبًا الْإِبِلُ: اونٹ کا چلنے میں
گردن لمبی کرنا۔

التَّغَبُ۔ مہ۔ رنج نعتب: تیز ہوا۔

نَاقَةٌ نَاعِيَةٌ جَنْوَاعِبُ وَنَعُوبٌ جَنْغُوبُ وَ
نَعَابَةٌ تَمِيزُ رِقَارٍ أَوْ نَمِيٍّ۔

النَّعَابُ۔ اسم مبالغہ۔ کتوے کا بچہ۔

الْمُنْعَبُ وَالْمُنْعَبُ: تیز رفتار اونٹنی۔ تیز
رفتار گھوڑا جو چلنے میں گردن بلند کرے۔ چلانے
والا۔ یوقوف۔

نَعْنَعَةُ (ف) نَعْنَاءُ: تعریف کرنا۔ بیان کرنا (اور اکثر
اس کا استعمال صفات حسنہ کیلئے ہوتا ہے) نَعْنَتْ
الْكَلِمَةَ: کلمہ کیلئے صفت ملانا۔

نَعَيْتُ (س) نَعْبًا: بتکلف عمدہ صفات و کماتا۔

نَعْتٌ (ك) نَعَانَةُ الرَّجُلُ: فائدہ عمدہ صفات
والا ہونا — الْقَوْمُ: گھوڑے کا تیز رفتار ہونا۔

أَنْعَتَ الرَّجُلُ: خوب صورت چہرہ والا ہونا۔
عمدہ خصالتوں والا ہونا۔

إِنْعَتَهُ: تعریف کرنا۔ اِنْعَتَتِ الْمَرْأَةُ —
بِالْجَمَالِ: متصف ہونا۔

تَنْعَتُ الشَّيْءِ: تعریف کرنا۔ بیان کرنا۔

إِسْتَنْعَتَهُ الشَّيْءُ: بیان کرنے کو کہنا۔

التَّنْعَتُ۔ مہ۔ تعریف جَنْعُوتُ۔

التَّنْعَةُ وَالتَّنْعَةُ وَالتَّنْعِيْتُ وَالتَّنْعِيْفَةُ
وَالْمُنْتَعِتُ مِنَ التَّخْلِجِ: گھوڑ دوڑ میں سہقت
لے جانے والا اصیل گھوڑا جس کی سب تعریف
کریں اور کہا جاتا ہے "شَيْءٌ نَعْتٌ" عمدہ چیز۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ نَعْتَةٌ" یعنی وہ ہندی مرتبہ یا حسن و

جمال میں استہراب ہے۔

نَعْتٌ (ف) نَعْنَاءُ وَنَعْنَتْ الشَّيْءُ: لینا۔

أَنْعَتُ فِي مَالِهِ: فضول خرچی کرنا —
الرَّجُلُ: سفر کے لیے سالن لینا — الْقَوْمُ: کام
میں جدوجہد کرنا۔

نَعْفَلُ الشَّيْءِ: جمع کرنا — الْفَرْشُ فِي
جَزِيَةٍ: تیز کی دوڑ کی وجہ سے گھوڑے کا بیٹھ بیٹھ
جانا۔

التَّغْفَلُ: بیوقوف بڑھا۔ تیز ہوا۔

التَّغْفَلَةُ: بیوقوفی۔ بڑھے کی چال۔

نَعِجَ (س) وَنَعِجَ (ن) نَعَجًا وَنَعُوجًا
اللونُ: خالص سفید رنگ ہونا۔ نَعَجَتِ النَّاقَةُ
فِي سَهْوِهَا: اونٹنی کا تیز دوڑنا (نَعِجَ (س)
نَعِجًا) الْبَيْتِيُّ: اونٹ کا موٹا ہونا — الرَّجُلُ:
بھیر کا گوشت کھا کر بد بھشی ہونا۔ صفت نَعِجَ:
اَنْعَجَ الْقَوْمُ: موٹے اونٹن والا ہونا۔

النَّعِجَةُ: بھیر۔ جَنْعَا جَنْعَاتٍ وَنَعَا جَنْعَاتٍ
الرَّمْلُ: گائے۔

النَّاعِيَةُ مِنَ التَّسَاءِ أَوْ التُّوْقِ: سفید عورت
یا اونٹنی۔ نَاقَةٌ نَاعِيَةٌ: تیز رفتار اونٹنی کہ جس
پر بیٹھ کر جنگلی بھیروں کا شکار کریں۔ اَزْهَلُ
نَاعِيَةٌ: ہموار زم زمین۔ جَنْوَاعِجُ:

التَّصِجُ۔ مہ۔ خالص سپیدی۔

نَعَرْتُ (ض) نَعَارًا وَنَعَارًا الرَّجُلُ: خزانے
لینا — الْعَرْفِيُّ بِالذَّمِّ: جوش کے ساتھ خون لگانا
یا نکلنے میں آواز ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "نَعَرَ فُلَانٌ
فِي لِقَاءِ الْإِفْلَاسِ" یعنی مستغنی ہوا۔

نَعَرْتُ (ف) نَعْرًا فِي الْبِلَادِ: جانا — الْقَوْمُ:
جوش و خروش ظاہر کرنا اور اکٹھا ہونا — اِلَى
فُلَانٍ: آنا۔ کہا جاتا ہے "مِنْ أَيْنَ نَعَرْتِ الْبَيْتَ" تم
کہاں سے ہمارے پاس آئے۔ نَعْرُ هِيَ الْأَمْرُ:
اٹھنا اور کوشش کرنا — الرَّجُلُ: مخالفت کرنا
اور انکار کرنا۔

نَعْرُ (س) نَعْرًا الْجِمَارُ أَوْ الْقَوْمُ: ناک میں
کبھی داخل ہونے کی وجہ سے مضطرب ہونا۔
صفت نَعْرُ:
نَعْرُ الشَّهْمِ: سیدھا حالی مطوم کرنے کیلئے ناخن
پر گھماتا۔

أَنْعَرَ الْأَرَكَ: درخت پیلو کا پھل دار ہونا۔
النَّعْرَةُ: نعر کا اسم مرہ۔ خراٹہ۔ حج نعرات۔
نَعْرَةُ النَّجْم: ہوا کا جھونکا۔ اور شیا کے طلوع
کے وقت سخت گرمی۔

النَّعْرَةُ وَالنَّعْرَةُ: کلمہ فرور۔ ہتھم ہاشان کام۔
النَّعْرَةُ وَالنَّعْرَةُ: ناک کا اندرونی بالائی حصہ۔
النَّعْرَةُ: ہوا جو ناک میں داخل ہو کر حرکت پیدا
کرتی۔ پیلو کا پھل (ایک قسم کی بڑی نیلی کھجی جو
گھوڑوں اور گدھوں کی ناک میں داخل ہو کر
تکلیف پہنچاتی ہے۔ حج نَعْرُو نَعْرَاتُ۔

النَّاعِرُ - فَا۔ کہا جاتا ہے كُلَّمَا نَعَرَ بِهِمْ نَاعِرُو
الْبَهْرَةِ: جب کبھی کوئی چیخنے والا چیتا ہے اس کے
چیخے ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ہڑونگ
نعر۔ وہ شخص جو ایک جگہ پر قائم نہ رہے
مؤنث نَعْرَةٌ۔

النَّعِيرُ - مہ۔ لڑائی وغیرہ کی حج و پکار۔ کہا جاتا ہے
"فَلَانٌ نَعِيرٌ مَهْمٌ" فلاں بلند ہمت ہے۔
النَّعَارُ - نافرمان۔ فتنہ انگیز۔ چیخنے والا۔ شور
مچانے والا۔ مؤنث نَعَارَةٌ۔ افواہ نَعَارَةٌ: شور
مچانے والی۔ بد زبان عورت۔ النِّعَارُ: ایک قسم کا
پرندہ۔

النَّعَارُ وَالنَّعْوَرُ وَالنَّاعُورُ - رگ یا زخم جس
سے خون جوش سے نکلے۔ النَّاعُورُ: چکن کا پھلو۔
النَّعْوَرُ مِنَ الرِّيحِ: گرمی میں ناکاں ٹھنڈی ہوا
یا سردی میں گرم ہوا۔ يَبِيَّةٌ نَعْوَرٌ: دور کی نیت۔
النَّعَارَةُ عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ: دستے والا مٹی کا آب
خورہ۔ عوام عین کی تخفیف سے بولتے ہیں۔
النَّاعُورُ وَالنَّاعُورَةُ: رحمت۔ حج نَوَاعِيرُ۔

نَعَسَ (ف ن) نَعَسًا الرَّجُلُ: اونگھنا صفت
نذر نَاعَسَ ج نَعَسٍ: صفت مؤنث نَاعَسَةٌ ج
نَاعَسَاتٍ وَنَوَاعِسٍ: نَعَسٌ جَسْمَةٌ أَوْ رَأْيَةٌ:
جسم یا رائے کا نرم و کمزور ہونا۔ نَعَسَتْ
الشُّوقُ: بازار کماند پڑنا۔

أَنْعَسَهُ - سلاٹا - فَلَانٌ: ست بیٹوں والا
ہونا۔
تَنَاعَسَ: تکلف سونا۔ اپنے آپ کو سوتا ہوا
ظاہر کرنا - النَّبِيُّ: کجلی کا ست پڑنا۔

تَنَاعَسَتِ الشُّوقُ: بازار کماند پڑنا۔
النَّعْسُ: حواس کی سستی۔ اُدْعَمُ - ابتدائی نیت۔
النَّعْسَانُ: اونگھنے والا۔ مؤنث نَعْسِي (اس کا
استعمال عموماً اشعار میں مستحسن ہے)
إِمْرَأَةٌ نَعَّاسَةٌ وَنَعْوَشٌ: اونگھنے والی
عورت۔ نَالَفَةٌ نَعْوَشٌ: دو درہار اونٹنی۔
نَعَّسَهُ (ف) نَعَّسًا اللَّهُ: بلند کرنا۔ اُنْهَمَا - ہلاکت
سے بچانا۔ فقیری کے بعد دولت والا بنانا -
الرِّبِيْعُ النَّعَّاسُ: خوش حال کرنا - الْمَعِيَتْ:
بھلائی سے یاد کرنا - ظَرْفَةٌ: نگاہ اٹھا کر دیکھنا -
الشَّجْرَةُ: جگھے ہوئے درخت کو اٹھانا۔
نَعِشٌ: تابوت پر اٹھایا جانا۔ صفت مَنْعُوشٌ -
فَلَانٌ: بھگنے کے بعد اٹھایا جانا۔
نَعَّسَهُ وَأَنْعَسَهُ اللَّهُ: بلند کرنا اور اٹھانا۔ نَعَّشَ
فَلَانٌ: نَعَّشَكَ اللَّهُ مِنْ عَقْرِيكَ: کہنا۔
النَّعَّشُ: سستی کے بعد ہمت ہونا۔ سَرَاخَانَا
- مِنْ مَسْقَطِيهِ: گرنے کے بعد اٹھنا۔
اِسْتَنْعَشَ: سستی کے بعد ہمت ہونا۔
النَّعَّشُ: مہ۔ بتا۔ مخالف کے ہاند چار پائی جس پر
بادشاہ کو بیمار ہونے کے بعد اٹھاتے تھے۔ تابوت۔
مردہ کا تخت۔ بَنَاتُ نَعَّشِ النُّكْبِيِّ: سات ساتے
جو قطب شمال کی جہت میں ہیں اور انہیں کے
قریب سات اور ستارے ہیں جن کو بَنَاتُ نَعَّشِ
الصُّغْرَى کہتے ہیں۔

نَعَّسَ (ف ن) نَعَّسًا الشَّيْءُ: حرکت دینا -
النَّعْرُ إِذَا الْأَرْضُ: جھٹ کرنا۔
نَعَّسَ (س) نَعَّسًا: بھگنا۔
اِسْتَنْعَسَ: بلنا - الرَّجُلُ: گرنے کے بعد اٹھنا۔
عُظْبَتَاكَ ہونا۔
النَّاعِصَةُ: مددگار۔ اِعْوَانُ وَالنَّاصِرُ:
أَنْعَضَ النَّاعِلُ: آدھا لقمہ کھانا آدھا ڈال دینا۔
النَّعْطُ: کھانے اور داد دہش میں ہدیز لوگ
واحد نَاعِطٌ۔
نَاعِطَةٌ مَنَاعِفَةٌ: باہم دو راستوں میں مقابلہ کرنا
کہ ہر ایک آگے بڑھ جانا چاہتا ہو۔ الظَّرْفِيُّ: راست
میں مقابلہ کرنا۔
أَنْعَفٌ: بلند جگہ پر بیٹھنا۔
اِسْتَنْعَفَ: بلند جگہ پر چڑھنا - فَلَانٌ: درپے

ہونا - الشَّيْءُ: غیر کے لیے چھوڑ دینا۔
الرَّوَاكِبُ: ظاہر ہونا۔

النَّعْفُ: پھاڑے نیچے اور وادی سے بلند ہموار
جگہ - مِنَ الزَّمَلَةِ: ریت کا گلاؤ پتلا حصہ۔ حج
بِعَافٍ۔

النَّعْفَةُ: پشت پاؤں پر جو تے کا تسمہ۔
النَّعْفَةُ: گیسو۔ شملہ۔ گوست میں فاسد گروہ۔
کجاوہ کے تے جو ادھر ادھر حرکت کریں۔

أَذُنٌ نَاعِيفَةٌ وَنُعُوفٌ وَمُنْتَعِفَةٌ لَكَتَا ہوا کان۔
الْمُنْتَعِفُ مِنَ الْجَبَالِ: پہاڑوں کی چوٹیاں۔
الْمُنْتَعِفُ: نرم اور سخت زمین کے درمیان کی

نَعَى (ف ش) نَعْفًا وَنَعِيفًا وَنَعَافًا وَنَعْفَانًا
النَّعْرَابُ: کڑے کا کاؤں کاؤں کرنا۔ الْمُؤَلِّدُ:
مؤلوں کا بلند آواز سے اذان دینا۔ الرَّوَّاحِيُّ
بِعِنْفِهِ: چرواہے کا بکریوں کو آواز دینا اور ڈانٹنا۔
النَّعَاقُ: ہمت کا میں کرنے والا۔
النَّاعِقَانُ: جو زاء کے دو ستارے۔

نَعَلَ (ف) نَعْلًا الْقَوْمَ: جوتے دینا۔ نَعَلٌ وَ
نَعْلٌ وَأَنْعَلَ الدَّابَّةُ: نعل لگانا۔
نَعَلَ (س) أَنْعَلًا: جوتے پہننا۔
نَعَّلَ وَأَنْعَلَّ: جوتے پہننا - الْقَوْمُ رَوْنَدًا:
اور کہا جاتا ہے "اِسْتَنْعَلَ الْأَرْضُ" اس نے پیدل
سڑکیا۔

النَّعْلُ: مہ۔ جوتے۔ ہر وہ چیز جس سے قدم کو چھایا
جائے (مؤنث) تَعْفِيرٌ نَعْلِيَّةٌ: نَعْلُ الدَّابَّةِ:
گھوڑے کا نعل حج بَعَالٌ وَأَنْعَلَ: النَعْلُ مِیَان
کے نچلے حصہ میں چاندی یا لوہے کا ہونا۔ سخت
زمین جس میں کچھ نہ آگے۔ حج بَعَالٌ: کہا جاتا ہے
"اِسْتَنْعَلَتْ بَعَالُ الْقَوْمِ" یعنی قوم کی زمین
سرسبز ہوگئی۔

النَّعْلَةُ: ہر وہ جس سے قدم کو زمین سے چھایا
جائے اور یہ نَعْلٌ سے خاص ہے۔
النَّاعِلُ: فَا۔ ہمت جوتے والا۔ گور خَرَزْ وَجَبَلٌ
نَاعِلٌ: جوتا پہنا ہوا مرد۔ حَافِلٌ نَاعِلٌ: سخت
کمر

النَّعَالُ: نعل بند۔
النَّعْلُ وَالْمُنْعَلَةُ: سخت زمین۔ کہا جاتا ہے

مُحْكَمٌ دَلَالٌ وَبَرَابِیْنٌ سَے مَزِیْنٌ، مَتَّوْعٌ وَمَنْفَرْدٌ مَوْضِعَاتٍ پَرِ مَشْتَمَلٌ مَفْتٌ اَنْ لَانِنٌ مَكْتَبَةٌ

”مَكَانٌ مُنْعَلٌ وَأَوْشٌ مُنْعَلَةٌ“

الْمُنْعَلُ: جو تے والا۔ فَرْشٌ مُنْعَلٌ: مضبوط نعل لگا ہوا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے ”زَمَاهُ بِالْمُنْعَلَاتِ“ اس نے اس پر مسیحیں ڈالیں۔

نَعْمٌ (ف ن) و نَعْمٌ (س) نَعْمَةٌ و نَعْمًا الرَّجُلُ: خوش حال ہونا — عَيْشَةٌ: آسودہ و کشارہ ہونا اور کہا جاتا ہے ”هَذَا مَنَزِلٌ يَنْتَعِمُهُمْ“ یہ ایسی منزل ہے جو ان کے موافق ہے ”وَنَعْمَتْ بِهِذَا عَيْشًا“ یعنی میں اس سے خوش ہوا ”وَنَعِمْتُ اللَّهُ عَيْشًا وَنِعِمَ اللَّهُ بِكَ عَيْشًا“ یعنی تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرے اور تم سے تمہارے محبوب کی آنکھ ٹھنڈی کرے۔

نَعِيمٌ (س) نَعِيمًا الْعَوْدُ: کڑی کا سربز و تروتازہ ہونا۔

نَعْمٌ (ک) نَعْمَةٌ: نرم و نازک ہونا۔ طامم ہونا۔ صفت ناعیم۔

نَعْمٌ: افعال مدح میں سے ہے اور غیر منحرف ہے۔ تم کہتے ہو نَعْمٌ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَنَعْمٌ زَيْدٌ زَيْدٌ اور غی اور جمع کا استعمال نادر ہے۔ کہا جاتا ہے نَعْمًا نَعْمًا وَنَعْمًا وَنَعْمًا اور بھی اس کے آخر میں مالا حق ہوتا اس وقت صلہ سے مستثنیٰ ہوتا ہے جب کہ کوئی قرینہ ہو۔ مثلاً تم کہو گے ”ذَقْنَهُ وَقَابِعًا“ (کسر میں سے اور کبھی منحرف بھی ہوتا ہے) معنی میں نَعْمٌ مَا ذَقْنَهُ کے اور عرب کا قول ”إِنْ فَعَلْتَ فَبِهَذَا نَعِمْتُ“ عام ساکنہ سے جس کی تقدیر نَعِمْتُ الْفِعْلَةُ ہے۔

نَعْمٌ الشَّيْءُ: نرم و نازک بنانا — الرَّجُلُ: آسودہ حال کر دینا۔ کسی سے نعم کتنا — الْقَوْمُ: لوگوں کے پاس پاؤں آنا۔

أَنْعَمَ الشَّيْءُ: نرم و نازک بنانا — فَلَانًا: آسودہ حال بنانا۔ کہا جاتا ہے ”أَنْعَمَ اللَّهُ صَبَاحًا“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صبح اچھی کرے۔ اور یہ امر کے موقع پر کہا جاتا ہے ”أَنْعَمَ صَبَاحًا“ اور کثرت استعمال کی وجہ سے ہمزہ اور نون حذف کر دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ”عِمْ صَبَاحًا وَ عِم مَسَاءً أَنْعَمَ اللَّهُ النِّعْمَةَ عَلَيْهِ وَ النِّعْمَةَ بِالنِّعْمَةِ“ نعت پہنچانا۔ انعم اللہ بک عینا: تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرنا یا تمہاری وجہ

سے دوسرے کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا أَنْعَمَ الرَّجُلُ: زیادہ کرنا۔ نعت کو پہنچانا — الْقَوْمُ: لوگوں کے پاس نیکے پاؤں آنا۔ أَنْعَمَ صَدِيقَهُ: نیکے پاؤں ہو کر رخصت کرنا۔ أَنْعَمَ لِي الْأَمْرُ: مہاندہ کرنا۔ اچھی طرح سے کرنا — أَنْعَمَ النَّظَرُ لِي الْمَسْأَلَةَ: غور کرنا۔ أَنْعَمَ لَهْ: کسی سے نعم کتنا اور کہا جاتا ہے ”هَذَا مَنَزِلٌ يَنْعَمُ“ یہ ایسی منزل ہے جو بہت برکت والی اور موافق ہے۔

نَاعِمٌ مَنَاعِمَةُ الرَّجُلِ: آسودہ حال ہونا۔ الرَّجُلُ: آسودہ حال بنانا — الْحَبْلُ وَ عَيْزَةٌ: رسی کو مضبوط کرنا۔

نَعَّمَهُ الرَّجُلُ: ناز و نعت کی زندگی بسر کرنا۔ نیکے پاؤں چلنا — قَدَمَيْهِ: مشغول کرنا — فَلَانًا بِالْمَكَانِ: ڈھونڈنا — الدَّائِبَةُ: خوب اچھی طرح ہانکنا اور کہا جاتا ہے ”أَتَيْتُ أَرْضَهُمْ فَتَنَعَّمْتَنِي“ یعنی میں ان کی زمین میں پہنچا اور وہ میرے لیے موافق ہوئی۔

نَعَّاعٌ: خوش عیش ہونا۔ نَعْمٌ کلمہ ایجاب ہے اور اس میں چار لغت اور ہیں۔

نَعِيمٌ وَ نِعِيمٌ وَ نِعَامٌ وَ نَعْمٌ اور یہ چار معانی میں آتا ہے۔

(۱) خبر کے بعد واقع ہو تو حرف تعریف ہے جیسے قَامَ زَيْدٌ کے جواب میں نَعْمٌ ہو تو اس کے معنی قَامَ کے ہوں گے۔

(۲) امر اور نہی کے بعد واقع ہو تو حرف وَعَدٌ ہو گا جیسے ”إِضْرِبْ زَيْدًا“ کے جواب میں ”نَعْمٌ أَعِدْكَ بِضَرْبِهِ“ کے معنی میں ہو گا۔

(۳) اور استنہام کے بعد واقع ہو تو حرف اِطْمَاعٌ ہو گا جیسے ”أَقَامَ زَيْدٌ“ کے جواب میں نَعْمٌ أَعْلَمْتُكَ بَقِيَابِهِ کے معنی میں ہو گا۔

(۴) اور جب صدر کلام میں واقع ہو تو قَائِدٌ تَاكِيْدٌ ہو گا جیسے نَعْمٌ إِنَّ زَيْدًا قَائِدٌ۔

النَّعْمُ: خوش حالی۔ تن آسانی۔ جِ أَنْعَمَ تَمَّ كَتَبَهُ هَذَا يَوْمًا نَعْمٌ“ یعنی یہ عیش و طرب کا دن ہے۔

النَّعْمُ: اَوْشٌ۔ چوپایہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے جِ أَنْعَامٌ جِ أَنَا جِ نِيمٌ۔

النِّعْمَةُ: اسم مرءة۔ آسودگی۔ نَعْمَةُ الْعَيْشِ:

زندگی کی آسودگی۔

النِّعْمَةُ: احسان۔ رزق وغیرہ کا انعام جو تمہارے اوپر ہو۔ خوشی۔ خوشگوار حالت۔ جِ نَعْمٌ وَأَنْعَمٌ وَ نِعْمَاتٌ وَ نِعْمَاتٌ وَ نِعْمَاتٌ۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ زَاوِيَةُ النِّعْمَةِ: فلاں بہت مالدار ہے۔ النِّعْمَاءُ جِ أَنْعَمٌ وَ النُّعْمِيُّ: بابرکت ہاتھ۔ وَ النُّعْمِيُّ: آرام۔ خوش میٹھی مال۔ کہا جاتا ہے ”سَأَلْتُهُ نَعْمَ عَيْنٍ وَ نَعْمَ عَيْنٍ وَ نَعْمَةَ عَيْنٍ وَ نَعْمَةَ عَيْنٍ وَ نَعْمِي عَيْنٍ وَ نَعْمِي عَيْنٍ وَ نَعْمًا عَيْنٍ وَ نَعْمًا عَيْنٍ“ یعنی عنقریب تمہارے اکرام کے لیے میں ایسا کروں گا اور کہا جاتا ہے ”نَعْمَانَاكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا“ تمہارے لیے آخری امر ہے کہ تم ایسا کرو۔

النِّعْمَةُ: خوشی۔ نَعْمَةُ الْعَيْنِ: آنکھ کی ٹھنڈک۔

النِّعَامَةُ: شتر مرغ (ذکر و مؤنث) جِ نَعَامٌ وَ نَعَامَاتٌ وَ نَعَائِمٌ اور مذکر کو ظلم اور شتر مرغ کے گدہ کو نَبَاتٌ الْهَيْسِقُ کہتے ہیں۔ شتر مرغ کے پر خوبصورت ہوتے ہیں جس کو زینت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ بھانگے اور عمارت میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ النِّعَامَةُ: نفس۔ تاریکی۔ خوشی۔ اکرام۔ جہالت۔ واضح راستہ۔ کنوئیں میں اٹھا ہوا پتھر۔ راستہ کا نشان۔ پہاڑ پر سائبان کی مانند بنی ہوئی عمارت۔ دماغ۔ سمجھل۔ لوگوں کی جماعت۔ اِبْنُ النِّعَامَةِ: بھڑکی کی بڑی۔ قدم یا کوا۔ اور کہا جاتا ہے ”نَفَرَتْ نَعَامَةٌ“ یعنی مر گیا کوچ کر گیا۔ ”وَجَاءَ كَالنِّعَامَةِ“ یعنی محروم لوٹا

”وَرَكِبَتْ جَنَاحِي النِّعَامَةِ“ یعنی اس نے اپنے معاملہ میں کوشش کی ”وَسَأَلْتُ نَعَامَتَهُ“ یعنی مر گیا ”وَسَأَلْتُ نَعَامَةَ الْقَوْمِ“ یعنی متفق ہو گئے اور انہوں نے اپنے منازل کو خالی کر دیا ”وَأِنَّهُ لَخَفِيْفٌ النِّعَامَةُ“ یعنی وہ ضعیف العقل ہے ”وَأَصَمُّ مِنْ نَعَامَةٍ“ وہ شتر مرغ سے زیادہ بہرا ہے اس لیے کہ شتر مرغ جب بھانگا ہے تو کسی جانب نہیں مڑتا۔

النِّعَامُ: اسم جمع ہے مفرد اس کا النِّعَامَةُ ہے۔ بیابان۔ النِّعَامُ الصَّادِرُ: چار ستاروں کے نام

التعمام الوارد: دوسرے چار ستاروں کے نام اور یہ سب منازل قمریہ سے ہیں۔
التعمائم: منازل قمریہ سے ایک منزل کا نام۔ جس کی صورت شتر مرغ جیسی ہے اور یہ آٹھ ستارے ہیں۔

الثؤفة: مہ۔ نرمی و نازکی۔ سلامت۔
الثعمان: حیرہ کے ہر بادشاہ کا لقب، خون شقائق الثعمان: گل لالہ۔ واحد شقیقة الثعمان۔
الإنعام: مہ۔ انعام۔ ج انعامات۔
الأنعامة: انعام۔ عطیہ۔

الثاعم: قا — ومن الثياب: طامم کپڑا —
من الثعش: آسودہ زندگی — من الثبات: سیدھا سوار۔
الثاعمة: الثاعم کا مؤنث۔ آسودہ زندگی والی بارگ۔

التعيم: آسودہ حال۔ آرام۔ مال۔ کہا جاتا ہے "رجل يعيم الثبال" یعنی سکون قلب والا مرد۔
تويم الله: اللہ کا فضل۔
المنعم: بھارو۔
المنعام: بڑا فیاض۔
كلام منعم: نرم کلام۔

المناعم والمنعام من الثبات: سیدھی ہمواریا ت۔
المنعم والمنعام والمنعم والمنعام: خوش حال۔ مالدار۔

نغش لسان فلان: زبان میں ہکلاہن ہونا۔
نغش الشئ: مضطرب ہونا۔ جملنا — عنة: دور ہونا۔
التغش والتغش: پودیتہ۔ واحد تغشة و تغشاة۔
التغشة: پودا۔

نغشوا نغمة السور: ملی کامیادوں میاؤں کرتا۔
التغور: تاک کے نیچے کا دائرہ۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ کی پھن۔ کھر کے پچھلے حصے کی کشادگی۔ تازہ کھجور۔
نغش نغشا و نغشا و نغشا و نغشا و نغشا

فلانا: موت کی اطلاع دینا۔ کہا جاتا ہے "نغاه يموت فلان" اس نے اس کو فلاں کی موت کی اطلاع دی — نغى القوم: میت کے دفن کیلئے بلانا۔ نغشته الشئ: خبر دینا — على القوم شهوا اثمهم: عیب گیری کرنا۔ کہا جاتا ہے "هو ينغى على فلان ذنوبه" یعنی وہ فلاں کے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے اور شہرت دیتا ہے۔ "وفلان ينغى فلانا" فلاں فلاں سے قصاص طلب کرتا ہے۔ "وفلان ينغى على نفسه بالفواحش" یعنی فلاں اپنے آپ کے مصلحت اور تکاب و فواحش کی شہرت دیتا ہے۔

انغى عليه شينا قبيحا: کسی کے مصلحت بری بات طعنہ کے طور پر رکنا۔ انغشته الشئ: خبر دینا۔
تنغى القوم: قتل اور طلب قصاص پر برا گھینے کرنے کیلئے مصلحتوں کی خبر موت کو بیان کرنا۔
استنغى القوم: قتل اور طلب قصاص پر برا گھیننے کرنے کے لیے مصلحتوں کی خبر موت کو بیان کرنا۔ متفرق و منتشر ہونا۔ استنغى ذكرا فلان: پھیلنا — حب الحميم بعدت تک رہنا —
الزاعى الغتم: چرواہے کا آگے ہو کر اپنے پیچھے بکریوں کو بلانا۔

التغيشه: نغی کا اسم مرتہ۔ ج نغيات۔
الثاعى: قا۔ خبر مرگ لانے والا۔ طعن تفتیح کرنے والا۔ ج ناعون و نغاه و نغيان۔
الثغى: مہ۔ خبر مرگ لانے والا۔ جس کی وفات کی خبر دی جائے۔

نغاه منى على الكسر: اسم فعل۔ بمعنی رافع کہا جاتا ہے نغاه فلانا: یعنی فلاں کی موت کا پیغام پہنچانا۔
النغى والمنغاة: خبر مرگ۔ ج منغاع۔
نغب (ن) نغبا الزينى: تھوک لگانا۔
نغب (ن) نغبا الرجل فى الشرب: گھونٹ گھونٹ دینا۔

نغب (ن) نغبا القلائد: پرندہ کا پالی پینا۔
التغبة والتغبة: گھونٹ ج نغب۔ التغبة: برا کام۔
التغين: پود قوف۔
التغشقة والتغشقة: جانور کے پیٹ کی آواز۔
التغشوق: ایک قسم کا پرندہ۔

التغشوق: ایک قسم کا پرندہ۔ ایک نہایت۔
نغش (ف) نغشا الشئ: بال سمجھنا۔
النغش: داغی تخت معیبت۔
نغوت (ف ض) و نغوت (س) نغوت او نغوتنا: القدر: ہانڈی کا بلانا۔

نغرو نغرو نغرو او نغرونا الرجل على فلان: غصبتاک ہونا۔ کہا جاتا ہے "نغرو عليه جوفه" اس کا جوف اس پر بھڑک اٹھا۔ صفت نہ کر نغرو صفت مؤنث نغرة — الثاقفة: اونٹنی کو آواز دینا۔ بلانا۔

نغرو (س) نغروا من الصياء: بہت پالی پینا — الرجل: کینہ رکھنا۔
نغرو الصبي: سبچے کو گد گدانا۔ بالثاقفة: اونٹنی کو آواز دینا۔ بلانا۔

نغرو الرجل: غصب کی وجہ سے جوف کا بھڑک اٹھنا — عن فلان: دیگر گوں ہونا یا غصبتاک ہونا۔

انغرت البهضة: اڑنے کا گند اہونا۔
تنغرو الرجل: ناواقف ہونا۔
النغرو: مہ۔ کھاری پالی کا چشہ۔
النغرو: بلبل۔ چڑیا کے بچے۔ ج نغوان۔
التغار: بہت غصبتاک۔ ج نغ نغار: بہت خون بہانے والا زخم۔

المغبر: بکری جس کے دودھ کے ساتھ خون آئے۔
المغفار: بکری جس کے دودھ کے ساتھ خون آنے کی عادت ہو۔

نغز (ف) نغزا الصبي: سبچے کو گد گدانا۔ تنغ القوم: ایک دوسرے پر برا گھینے کرنا۔
التغاز: قندار گھینز۔ جاہی لانے والا۔
نغش (ف) نغشا و نغشا: بلانا اور بے قرار ہونا۔ کہا جاتا ہے "هو ينغش الى فلان" وہ فلاں کی طرف مائل ہے۔ "وشغى فلان فنغش" یعنی طاری ہونے کے بعد حرکت کی۔

تنغش و انتغش الشئ: بلانا اور بے قرار ہونا۔ کہا جاتا ہے "انتغش و تنغش المكان باهله و الواس بالفضل" جبکہ اپنے لوگوں اور سرجوں سے بھر گیا۔

قابل کچھ بات کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَكَّتَ فَلَانٌ
فَمَا تَغْنَى بِخَوْفٍ" فلاں خاموش رہا ایک حرف
نہیں بولا۔

نَاغِي الصَّبِيحِ: بچے سے دل پسند بات کرنا۔
النَّوْأَةُ: عشق بازی کرنا — الرَّجُلُ: مقابلہ
کرنا۔ غالب ہونے کی کوشش کرنا۔ قریب ہونا
— الصَّوْحُجُ السَّحَابِ: موج کا بادل کی طرف
— اٹنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْجَبَلُ يَنَاطِحِي
السَّمَاءَ" یہ پہاڑ اونچائی کی وجہ سے آسمان کے
قریب ہے۔

تَنَاطَى الْقَوْمَ: باہم مقابلہ کرنا۔ ایک دوسرے
پر غلبہ کی کوشش کرنا۔
التَّأَغِيَةُ: کلمہ۔

التَّقْوَةُ وَالتَّغْفِيَةُ: سرلی آواز۔ اچھی گفتگو
التَّغْفِيَةُ: خبر جو ابھی تحقیق نہ کی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے
"سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی

اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی

اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی

اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی

اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی

اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی
اُخْبَرْتُ سَمِعْتُ تَغْفِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی

التَّغْفُّ - مِمَّ - اُونٹ اور بکری کے تاک کے
کپڑے۔ واحد تَغْفَةٌ. التَّغْفُّ: خشک ریٹ جو
تاک سے نکلے۔

تَغْفَقُ (ف ض) نَغْفَاوُ وَنَغْفَاوُ نَغْفَاوُ: کوسے کا
کاؤں کاؤں کرنا۔

التَّغْفَاقُ: بہت کاؤں کاؤں کرنے والا۔

نَهْلُ (س) نَهْلًا الْجِلْدُ: کھال کا دباغت میں
خراب ہونا — الْجُرْحُ: فاسد ہونا: زخم میں کچھ
خرابی باقی رہ جانا۔ نَهَلْتُ زَيْتَةً: میت بری ہونا۔
نَهَلْتُ قَلْبِي عَلَى: کینہ رکھنا — بَيْنَهُمْ: فساد
ڈالنا۔ چغل خوری کرنا — وَجْهَ الْأَرْضِ: سوکھا
پڑنے کی وجہ سے سطح زمین کا خشک ہونا۔

نَهْلٌ (ک) نَهْوَلَةُ الْمَوْلُودِ: نسبت بگڑنا۔
الْبَهْلَةُ اسم مصدر ہے۔

أَهْلُ الْجِلْدِ: دباغت میں خراب کرنا۔ اسم
التَّهْلَةُ۔

التَّهْلُ: گھوڑے اور گدھی سے پیدا شدہ جانور۔
التَّهْلُ: مِمَّ - لوگوں کے درمیان فساد انگیزی۔
چغل خوری۔

التَّهْلَةُ: چغل خوری۔

التَّهْلُ وَالتَّهْلُ مَوْتٌ نَهْلَةٌ وَنَهْلَةٌ وَالتَّهْلُ
بگڑا ہوا۔ حرامی بچہ۔

التَّهْلَةُ: ایک قسم کا کپڑا جو چوڑے کو خراب کر
دیتا ہے۔

نَغَمٌ (ض ن) وَنَغَمٌ (س) نَغَمًا وَنَغَمٌ وَتَغَمٌ
الرَّجُلُ: گانے میں سر نکالنا۔ نَغَمٌ فِي الشَّرَابِ:
تھوڑا سا پیتا اور کہا جاتا ہے "سَكَّتَ لَمَّا نَغَمَ
بِخَوْفٍ" وہ خاموش رہا ایک حرف نہیں بولا۔
نَاغَمَةٌ مُتَنَاغِمَةٌ: بہت آہستہ گفتگو کرنا۔

النَّغَمُ وَالتَّغَمُ: گانے میں سر نہ نکالنا۔ ج
آناغیم اور اسی سے آنگامُ الْمُؤَسِّمِيَّ ہے۔
آہستہ گفتگو۔

النَّغَامُ: بہت سر نکالنے والا۔

التَّغْمَةُ وَالتَّغْمَةُ: نغم کا واحد۔ پڑھنے میں اچھی
آواز۔ ج نغمات۔

النَّغْمَةُ: گھونٹ۔ ج نغم
رَجُلٌ نَغْمٌ: اچھی آواز والا مرد۔

نَغْمًا يَنْغَمُ نَغْمًا وَنَغْمًا يَنْغَمُ نَغْمًا: نغم

التَّغْمَةُ: نغم کا اسم مرہ۔
التَّغَامُ وَالتَّغَامُ وَالتَّغَامِيُّ: بہت ہستہ قد۔
التَّغَامُ: رُؤَيْلُ لُؤْكَ - عیار لوگ۔

نَغِيضٌ (س) نَغِيضًا الْبَحِيرُ: سیراب نہ ہونا۔
الرَّجُلُ: مراد پوری نہ ہونا۔

نَغِيضَةٌ (ف) نَغِيضًا: پانی کا حصہ روک دینا یا
پوری طرح سے پینے نہ دینا۔

نَغِيضٌ وَنَغِيضٌ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَيْشُ وَنَغِيضٌ
عَيْشُهُ: زندگی کد کر دینا۔ وَنَغِيضٌ فَلَانًا:
زندگی کد کر دینا۔ أَنْغَضُ فَلَانًا زَعِيئَةً: کسی
کے جانوروں کو چرنے سے روک دینا۔

نَغِيضٌ تَغِيضًا: خوشگوار یا کمال نہ ہونا۔
تَغْمُضُ الْعَيْشِ: کد ہونا۔

تَنَاطَيْتُ الْإِبِلَ: جھوم کرنا۔
التَّغْمُضَةُ: مراد پوری کرنے سے مانع نغص۔

نَغَصٌ (ن ض) نَغَصًا وَنَغَصًا وَنَغَصَانًا
کبھی کے ساتھ بلنا اور بے قرار ہونا۔ نَغَصُوا
إِلَى الْعَدُوِّ: مقابلے کے لیے اٹنا — الشَّيْءُ
وَبِالشَّيْءِ: ہلانا۔ نَغَصُ نَغَصًا الشَّيْءُ: بہت ہونا
— السَّحَابِ: گھٹائپ بادل چڑھنا۔

نَغَصُ الشَّيْءِ: ہلانا۔
أَنْغَضُ الشَّيْءُ: ہلانا اور بے قرار ہونا۔ زَاوَةُ:
سر کو تھب یا استراہ سے ہلانا۔

تَغْمُضُ الشَّيْءِ: ہلانا اور بے قرار ہونا۔
التَّغْمُضُ: مِمَّ - سر ہلانے والا۔ چلنے میں کانپنے
والا۔

التَّغْمُضُ: مِمَّ - سر ہلانے والا۔ چلنے میں کانپنے
والا۔
التَّغْمُضُ: مِمَّ - سر ہلانے والا۔ چلنے میں کانپنے
والا۔

التَّغْمُضُ: مِمَّ - سر ہلانے والا۔ چلنے میں کانپنے
والا۔
التَّغْمُضُ: مِمَّ - سر ہلانے والا۔ چلنے میں کانپنے
والا۔

التَّغْمُضُ: مِمَّ - سر ہلانے والا۔ چلنے میں کانپنے
والا۔
التَّغْمُضُ: مِمَّ - سر ہلانے والا۔ چلنے میں کانپنے
والا۔

التَّغْمُضُ: مِمَّ - سر ہلانے والا۔ چلنے میں کانپنے
والا۔
التَّغْمُضُ: مِمَّ - سر ہلانے والا۔ چلنے میں کانپنے
والا۔

الْقَلْبُ: كَلْبًا — فَلَانًا: کسی پر جاو کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَفَثَ اللّٰهُ الشَّيْءَ فِي قَلْبِهِ" اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ وَ نَفَثَ فِي زَوْجِيْ او قَلْبِيْ كَذَا" مجھے فلاں چیز کا الہام ہوا۔ "وَ فَلَانٌ يَنْفَثُ عَلٰی غَضَبًا" فلاں مجھ پر غصہ کی وجہ سے طیش میں ہے۔

نَافِثَةٌ مِّنَافِثَةٍ: جیکے جیکے بات کرتا۔ التفتت: مہم۔ التلم: نَفَثَ الشَّيْطَانُ: غزل کے اشارے۔

التفتة: نَفَثَ كَالِاسْمِ مَرَّةً: ج نَفَثَاتٍ: کہا جاتا ہے "مَا أَحْسَنَ نَفَثَاتِ فَلَانٍ" یعنی فلاں کے اشارے کس قدر اچھے ہیں۔

الثقافة: تموک وغیرہ جو رو سیب والا پھینکے۔ الثالوث والثقات: جاو کر۔ مؤنث نَافِثَةٌ وَ نَفَاةٌ۔

ذمّ نَفِثٍ: زخم سے بہا ہوا خون۔ المنفوث: مہم۔ زَجَلٌ مِّنْفُوثٌ: جاو کیا ہوا مرو۔

نَفِثَ (ن) نَفِثًا وَ نَفِثَانًا وَ نَفُوثًا الْأَزْنِبِ او التزويج: خرگوش یا جنگلی چوہے کا دوڑ کر نکل بھاگنا۔ نَفِثَتِ الزَّبْيَحُ: ہوا کا تیز چلنا۔ الظربى بالقوم: راستہ میں قوم کا اچھا ک ظاہر ہونا۔

نَفِثَ نَفِثًا الْإِنْسَانُ: غیر واقعی صفات پر فخر کرنا۔ الْفُرُوجَةُ: مرنی کے بچے کا کانڈے سے لکنا۔ الْأَزْنِبُ وَ هَيْبَتَا: خرگوش کو بڑا کر دکھانا۔ الشّيءُ: بلند کرنا۔ السِّقَاءُ: خشکیز، بھرا۔

أَفِثَ الْأَزْنِبُ: خرگوش کو بڑا کر دکھانا۔ الْحَالِبُ: دوڑنے کے وقت برتن کو تھمن سے چد کرنا۔

تَفَفِثَ وَ انْتَفِثَ: بلند ہونا۔ الزَّجْلُ: غیر واقعی صفات پر فخر کرنا۔ ذِيك مَارًا: تَفَفِثَتْ الزَّبْيَحُ عَلٰی الْقَوْمِ: غفلت کی حالت میں تیز ہوا کا چلنا۔ انْتَفِثَ الْأَزْنِبُ: خرگوش کا دوڑنا۔ کوونا۔

کما جاتا ہے "انْتَفِثَتْ مِنْهُ الْأَزْنِبُ" انتفثت الْأَزْنِبُ وَ غَيْرُهَا" خرگوش کو بڑا کر دکھانا۔ اسْتَنْفِثَ الشَّيْءَ: نکالنا۔ ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے

"مَا الَّذِي اسْتَنْفِثَ غَضَبَكَ" یعنی کس چیز نے تھمیں غصہ دلایا۔

النَّفِثُ: نَافِثَةٌ: نَافِثَةٌ نَافِثٌ: سخت بلند آواز۔

الثَّفَاجُ: الثَّفَاجُ كَالْمَوْثِ: بست بارش والا۔ بادل۔ ہوا جو پہلے زور سے چلے۔ آخری ہلے۔ بیٹی۔ اس وجہ سے کہ وہ اپنے مہر سے باپ کے مال کو بڑھاتی ہے۔ مٹک کا نذر۔ مٹک رکھنے کا برتن۔ ج نَوَالِجٍ۔

الثَّفَاجُ: غیر واقعی صفات پر فخر وغرور کرنے والا۔ ذِيك مَارًا وَالا۔

الثَّفَاجَةُ: چو۔ خطا۔

التفنيحة: کمان۔ ج نَفَالِحٍ۔

التفنيح: اچھی گھنٹ جو کسی قوم میں شامل ہو اور نہ مسلح ہونہ مسند۔ ج نَفِجٍ: التفنيح: بوجھل اور ست لوگ۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ نَفِجٌ الْحَقِيقَةُ" وہ مولے سرین والا ہے "وَ إِهْرَاقَةُ نَفِجٍ الْحَقِيقَةُ" سونے سرین والی عورت۔

الأنفجاني: قول میں افراط کرنے والا۔

المنافج: چھوٹے تکیے کے مانند ایک چیز جس سے عورتیں اپنے سرین کو بڑا ظاہر کرتی ہیں۔

يَجُوزُ مِّنْفِجٍ: کوکھ باہر نکالنا ہوا اوٹ۔

المنفوج: کشادہ پہلوؤں والا اوٹ۔

نَفِثَ (ب) نَفِثًا وَ نَفِثَانًا وَ نَفُوثًا وَ نَفَاخًا الْقَلْبِ: خوشبو پھیلانا۔ نَفِثَتِ الزَّبْيَحُ: ہوا کا چلنا۔ ابرائی ہوا کا چلنا۔ نَفِثَ الْعِزْقُ: رگ سے خون لگانا۔ نَفِثَتِ الدَّابَّةُ الزَّجْلُ: کھر کے کنارے سے مارنا۔ نَفِثَ فَلَانًا بِالسَّيْفِ: آہستہ تلوار سے مارنا۔ نَفِثَهُ بِكَذَا: دینا۔ نَفِثَ لِمُنْتَهٍ: سنگھما کرنا۔ الشَّيْءُ: دفع کرنا۔ ہٹانا۔

نَافِثَةٌ مِّنَافِثَةٍ: جھگڑا کرنا۔ نَافِثٌ عَنِ فَلَانٍ: کسی کی جانب سے بداندیشی کرنا۔ انْتَفِثَ بِفَلَانٍ: سامنے آنا۔ انْتَفِثَ إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا: واپس آنا۔

التفث: مہم۔ التفث من الرياح: سردی میں ہوا کا چلنا اور گرمی میں ہوا کے چلنے کو المفتح کہتے ہیں۔

التفثة: نفع کا اسم مرہ۔ نَفِثَةُ الدَّمِ: خون کا فوراً۔ نَفِثَةُ الزَّبْيَحِ: ہوا کا جموں کا۔ نَفِثَةٌ الْقَلْبِ: خوشبو کی بھڑک۔ — مِنَ الْأَلْبَانِ:

خالص دودھ۔ التفثة: عطیہ۔ ج نَفِثَاتٍ: کہا جاتا ہے۔ نَفِثَةُ نَفِثٍ: بلند ارادہ۔

التفث من التزويج: اونٹنی جس کے تھمن سے بغیر دوڑے ہوئے دودھ نکلے۔ — مِنَ الْيَسِينِ: دور تک تھم چمکنے والی کمان۔ رَنِجٌ نَفِثٌ: تھم چلنے والی ہوا۔

التفثاح: بست داد و دوش والا۔ طَلْعَةٌ نَفَاخَةٌ: زور سے خون بہانے والا تیز۔

التفنيحة: دور تک تھم چمکنے والی کمان۔ التفنيح والمنفح: دخل در معقولات کرنے والا مرو۔

الإلفحة والإنفحة والألفحة

والمنفحة: بکری کا پچڑ جو ابھی صرف دودھ ہی پیتا ہو اس کے پیٹ سے ایک چیز نکالتے ہیں اور کپڑے میں لپیٹ کر لیتے ہیں پھر وہ بغیر کماند گاڑھا ہو جاتا ہے اور عوام اس کو مَحْبِيثَةٌ کہتے ہیں۔

نَفِثَ (ن) نَفِثًا وَ نَفِثَانًا وَ نَفُوثًا وَ نَفَاخًا مَارًا: کہا جاتا ہے نَفِثَ لِي الثَّارُ وَ نَفِثَ الثَّارُ: نَفِثَ الصُّخْرِي: بلند ہونا۔ نَفِثَتِ الزَّبْيَحُ: ہوا کا اچھا ک آنا۔ اور کہا جاتا ہے "نَفِثَ شَيْءًا فِيهِ" یعنی اس نے کھیر کیا۔ "نَفِثَ الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِهِ" شیطان نے اس کی ناک میں پھوک دیا۔ یعنی اس نے اپنے متعلق ایسی بڑھ چڑھ کر باتیں کہیں جو حقیقتاً اس کے اندر نہیں تھیں۔ نَفِثَةُ الطَّغَامِ: سیر کرنا۔

نَفِثَ: چھوٹا۔

انْتَفِثَ: چھوٹا۔ انْتَفِثَ الشَّيْءُ: بلند ہونا۔

النَّهَازُ: دن چڑھنا۔ الزَّجْلُ: بڑا بڑنا۔ کھیر کرنا۔

التفث: فخر۔ کھیر۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ ذُو نَفِثٍ: التفث: جاووروں کے تھمن کا درم جو چلنے سے کم ہو جائے۔

التفث: جوانی سے بھرپور۔ کہا جاتا ہے "شَابٌ نَفِثٌ وَ جَارِيَةٌ نَفِثٌ"۔

التفثة: نفع کا اسم مرہ۔ کمانے وغیرہ سے پیٹ کا پھولنا۔ نَفِثَةُ الشَّيْبَابِ: کمال جوانی۔ نَفِثَةُ الزَّبْيَحِ: موسم بہار کی ترو تازگی۔

النَّفَاحِ - ورم جو بیماری کی وجہ سے پیدا ہو۔
النَّفَاحَةُ - پانی کا بلبلہ۔ مچھلی کے پیٹ میں ایک
پھولی ہوئی چیز جن نَفَاحَاتِ۔

النَّفَاحِ - فا۔ کہا جاتا ہے "مَا بِالذَّارِ نَافِخِ
صُرْمَةٍ" یعنی گھریں کوئی نہیں۔

النَّفَاحُ - یا فوخ کی تحریف ہے، بمعنی چندیا۔
التَّفَاحِ - مہ۔ جو شخص آگ پھونکنے پر مقرر ہو۔

کہا جاتا ہے "رَجُلٌ نَفَّاحٌ وَنَفَّاحَانِ وَنَفَّاحَانِ
النَّفَّاحِي وَنَفَّاحِي" سوال کی وجہ سے پر
گوشت مرد اور مؤنث تاک کے ساتھ جمع کی
صورت میں۔

النَّفَّاحُ وَالنَّفَّاحُ - پھونکنے۔ لوہار کی
دھونکنے۔ ج متالیخ و متالیخ۔ متالیخ
الشَّيْطَانِ: شیطان کے دسوس۔

النَّفَّاحُ - مہ۔ بڑے پیٹ والا۔ موٹا۔ بڑول۔
نَفَّاحٌ (س) نَفَّاحٌ وَنَفَّاحٌ الشَّيْ: نیست و تا بود
ہوتا۔ ختم ہوتا۔ کہا جاتا ہے "نَفَّاحٌ الْقَوْمِ": قوم
کاوش ختم ہو گیا۔

نَفَّاحٌ (ن) نَفَّاحٌ الْقَوْمِ: لوگوں سے آگے بڑھ
جانا۔

النَّفَّاحُ الْقَوْمِ: بے مال دے تو شہ ہوتا۔ النَّفَّاحُ
الْبَهْرُ: کنوئیں کا پانی ختم ہوتا۔ النَّفَّاحُ الشَّيْ:
نیست و تا بود کرتا۔ الْقَوْمِ: لوگوں کے درمیان
خمس کرد درمیان میں چلنا۔

نَافِذَةٌ مَنَافِذَةٌ: باہم حاکم کے پاس جانا۔ جھگڑا
کرتا۔ ایک دوسرے کی جھگڑا تو بود کرنے کی
کوشش کرتا۔

النَّفَذُ وَاسْتَنْفَذَ الشَّيْ: نیست و تا بود کرتا۔

اسْتَنْفَذَ وَسَعَهُ: پوری طاقت لگانا۔ النَّفَذُ
الْحَقُّ: پورا حق لینا۔ اللَّيْنُ: دودھ و دھات اور
کہا جاتا ہے "النَّفَذُ مِنْ عَذْوَةٍ" یعنی اس نے
اپنے دشمن سے پورا بدلہ لے لیا۔

تَنَافَذَ الْمُحَضَّنَانِ إِلَى الْقَاضِي: فیصلہ کے
لیے جانا۔ تَنَافَذَ الْقَوْمِ: جھگڑا کرتا۔

النَّفَائِدُ فَاحِصَةٌ مَنَافِذٌ: جھگڑے میں پوری
طاقت صرف کرنے والا۔

النَّفَائِدُ - فا۔ اور کہا جاتا ہے "قَعْدٌ مَنَافِذٌ" وہ
کوشش نہیں ہوا۔

النَّفَائِدُ - مہ۔ کہا جاتا ہے "لَمِنَ هَذَا الشَّيْ
مُنْتَفَذٌ عَنْ غَيْرِهِ" اس چیز میں بہ نسبت غیر کے
وسعت ہے "و فَلَانٌ مُنْتَفَذٌ فَلَانٍ" یعنی جب
ایک کے پاس سے سارا مال خرچ ہو جاتا ہے تو
دوسرا اپنے مال سے اس کی مدد کرتا ہے۔

نَفَذَ (ن) نَفَذًا وَنَفَذًا نَفَذًا الشَّيْ:
حمید کرپا ہوتا۔ کہا جاتا ہے "نَفَذَ السَّهْمَ الزَّيْبَةَ
وَلِيْنَهَا وَمِنْهَا" تیر شکار سے حمید کرپا ہو گیا۔

فَلَانٌ الْقَوْمِ: آگے گزر جانا (ن) نَفَذًا وَ
نَفَذًا) الْأَمْرُ أَوْ الْقَوْلُ: جاری ہوتا۔ نائفہ ہوتا۔
پورا ہوتا۔ نَفَذَ الْمَنْوِلَ إِلَى الظَّرْفِي: حاصل
ہوتا۔ نَفَذَ الظَّرْفِي: شاہراہ عام ہوتا۔ صفت نائفہ۔

نَفَذَ الْكِتَابَ إِلَى فَلَانٍ: پہنچانا۔ نَفَذَ الرَّجُلَ فِي
الْأَمْرِ: جلدی کرتا۔ ماہر ہوتا۔ نَفَذَ لَوَجْهِهِ ابْنِي
حالت پر گزرتا۔

نَافِذَةٌ: فیصلہ کے لیے جانا۔

نَفَذَ وَالنَّفَذَ السَّهْمَ الزَّيْبَةَ: تیر سے شکار کو
حمید کرپا کرتا۔ الْكِتَابَ إِلَى فَلَانٍ: بھیجنا
الْحَاكِمِ الْأَمْرَ: جاری کرتا۔ نائفہ کرتا۔
الرَّجُلَ الْقَوْمِ: وسط میں چلنا۔ آگے گزر جانا و
النَّفَذَ عَهْدَهُ: عمل میں لانا۔

تَنَافَذَ الْقَوْمِ إِلَى الْحَاكِمِ: فیصلہ کے لیے حاکم
کے پاس جانا۔

النَّفَذُ - جاری کرتا۔ کہا جاتا ہے أَمْرٌ يَنْفَذُ
الْكِتَابَ: اس نے کتاب کے لکھے ہوئے کے
مطابق اجرا کا حکم دیا۔ پھین۔ لکھے کی جگہ۔ رہائی کی
جگہ۔ ج النَّفَذُ اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ طَعْنَةٌ لَهَا
نَفَذٌ" یہ ضرب نیزہ ایسی ہے کہ آریا ہے۔

النَّفَائِدُ - فا۔ ہر کام کو گزرنے والا۔ ظَرْفِي
نَافِذٌ: عام راستہ۔ أَمْرٌ نَافِذٌ: ایسا حکم جس کی
فرمانبرداری کی جائے۔ النَّافِذُ: یہ التَّوَالِدُ کا واحد
ہے۔ نوافذ جسم انسانی کے ہر سوراخ کو کہتے ہیں
جیسے ناک، منہ وغیرہ۔

النَّفَائِدُ: النَّافِذُ کا مؤنث۔ روشن دان۔
سوراخ۔ اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ طَعْنَةٌ نَافِذَةٌ" یہ
ضرب نیزہ آریا ہے۔ ج تَوَالِدُ۔

النَّفَادُ وَالنَّفَادُ: ہر کام کو گزرنے والا۔
النَّفَادَةُ: مہرہ۔ ج نَفَذُ۔

النَّفِيدُ - نائفہ۔ أَمْرٌ نَفِيدٌ: مانا ہوا حکم۔

النَّفِيدُ - گزر گا۔ ج متفاد۔

النَّفِيدُ - کسی چیز کے جاری ہونے کی جگہ ج
متفاد متفاد الأنتسان: جسم انسانی کے سوراخ
جیسے منہ، ناک وغیرہ۔

النَّفِيدُ - محامض۔ کشاوی۔

نَفَرَتْ (ش) نَفَرًا وَنَفَارًا وَنَفِيرًا الدَّابَّةُ
مِنْ كَذَا: چوپائے کا بد کرنا۔ ڈر کر دور ہونا۔ صفت
نَافِرٌ وَنَفِيرٌ:

نَفَرٌ (ض) نَفَرًا: مِنْ كَذَا: نفرت کرتا۔ ناپسند
کرتا۔ کہا جاتا ہے "نَفَرْتُ مِنْ صُخْبَةِ فَلَانٍ"
مجھے فلاں کی صحبت ناپسند آئی۔ عَنِ كَذَا:
رور کوئی کرتا۔ اعراض کرتا۔ الْقَوْمِ: حشرق
ہوتا۔ نَفَرًا إِلَى الشَّيْ: دور تھا۔ (نَفَرًا) الْعَيْنُ
وَغَيْرُهَا: آگے کا سوجنا۔ (نَفَرًا) فَلَانًا: غالب

آتا۔ (نَفَرًا وَنَفَرًا) الْحَاجُّ مِنْ مِثْلِي: کدکی
طرف کوچ کرتا۔ (نَفَرًا وَنَفَرًا وَنَفَرًا
نَفَرًا) الظَّنُّ وَغَيْرُهُ: ہرن کا بھگانا اور دور
ہونا (نَفَرًا وَنَفَرًا وَنَفِيرًا) الْقَوْمِ لِيَقْتَالُوا
الْأَمْرَ: چل پڑنا۔

نَفَرَةٌ: بھگانا۔ نَفَرَةٌ عَلَى فَلَانٍ: کسی پر غالب
ہونے کا فیصلہ دینا۔ نَفَرَةُ الشَّيْ وَعَلَى الشَّيْ وَ
بِالشَّيْ: غالب ہونا۔ نَفَرٌ عَنْ فَلَانٍ: برالقب
رہنا۔

النَّفَرَةُ: بھگانا۔ النَّفَرُ الْقَوْمِ: بھاگے ہوئے
آدمیوں والا ہونا۔ الْقَوْمِ فَلَانًا: دور رہنا۔
النَّحَاكِمِ فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ: غالب ہونے کا
فیصلہ دینا۔

نَافِرَةٌ نَفَارًا وَنَفَارَةٌ: فیصلے کے لیے جانا۔
حسب و نسب میں فخر کرتا۔ کہا جاتا ہے "نَافِرَةٌ
إِلَى الْقَاضِي فَتَقْرُنِي عَلَيْهِ" میں اس کو قاضی
کے پاس فیصلہ کے لیے لے گیا اس نے میرے
طلب کا فیصلہ کیا۔

نَفَرًا: کوچ کرتا۔

تَنَافَرُ الرَّجُلَانِ: باہم فیصلہ کے لیے جانا۔ باہم
فخر کرتا۔ الْقَوْمِ لِلْأَمْرِ: چل پڑنا۔

اسْتَنْفَذَهُ: بھگانا۔ اسْتَنْفَذَ الْقَوْمِ: قوم سے مدد
طلب کرتا۔ جگہ کیلئے کوچ کرنے کی درخواست

محمک دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوتا — الفؤس : کان کا چٹخا — التھو : سر میں زیادہ پانی ہونا — النھاز : دوپہر ہونا۔ الرّجُل : بسی بسی باتیں کرنا — الرّجُلُ لہی الإناء : برتن بغير جدا کیے ہوئے پانی پینا۔ تین سانس میں پانی پینا (احد او میں سے ہے) حدیث میں ہے "إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَيَنْهَى عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ" جناب نبی ﷺ تین سانس میں پانی پیتے تھے اور ایک سانس میں پانی پینے سے منع فرماتے تھے اور کہا جاتا ہے "تَنَفَّسَ الصَّعْدَاءُ" یعنی اس نے صحن یا گم کی وجہ سے بے لے سانس لئے۔ تَنَفَّسَ الْقَوْمُ فِي الْأَمْرِ : سبالہ کرنا۔ بطریق مقابلہ کے رغبت کرنا۔

التنفس : مع۔ روح۔ خون۔ کہا جاتا ہے "وَفَقَّ نَفْسَهُ" اس کا خون اچھل کر نکلا۔ بدن کہا جاتا ہے "هُوَ عَظِيمُ النَّفْسِ" یعنی وہ بڑے جسم کا ہے۔ نظرد۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْهُ نَفْسٌ" یعنی اسے نظرد لگی۔ نفس : نفس الشئ : عین شئ اور یہ بطور تاکید بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ لِي هُوَ نَفْسَهُ وَنَفْسِهِ" یعنی وہ خود ہی آیا۔ نفس الأمر : حقیقت امر۔ النفس : عظمت۔ ہمت۔ عزت۔ ارادہ۔ رائے۔ عیب۔ سزا۔ پانی۔ — لیس سے مراد اگر روح ہو تو موت سے جیسے خَوَجَتْ نَفْسَهُ اور اگر نفس مراد ہو تو ذکر ہے جیسے جلدی خفست عشر نفسا ج النفس و نفوس اور کہا جاتا ہے "لِي نَفْسِي أَنْ أَفْعَلَ كَذَا" میرا ارادہ ہے کہ ایسا کروں "وَفَلَانٌ يُؤَاوِزُ نَفْسِهِ وَيُشَاوِرُ زُهْمًا" یعنی فلاں اپنے معاملہ میں تردد ہے اور اس کی دو رائیں ہیں اور کسی پر استقلال نہیں "وَخَوَجَتْ نَفْسَهُ وَجَادَ بِنَفْسِهِ" یعنی وہ ہر گمیا۔

التنفس : مع۔ جموں کا۔ سانس۔ گھمائش۔ صلت۔ کشادگی۔ کہا جاتا ہے "وَإِضْمَلُوا الْأَعْيُنَ وَأَنْتُمْ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ" خیر کا عمل کرو۔ اس حال میں کہ تم کو زندگی کی صلت حاصل ہے۔ بسی منگھو۔ کہا جاتا ہے "كَتَبْتُ كِتَابَهَا نَفْسًا" اس نے لہا لہا لکھا۔ گھونٹ جیسے "إِخْرَجَ مَا فِي الْإِنَاءِ نَفْسًا وَاجِدًا" برتن میں جو کچھ ہے اس کو ایک گھونٹ

المنفُور۔ دفع۔ مطلوب۔ نَفْرَجَ نَفْرَجَةً : بہت بات کرنا۔ اليفرج واليفرجة واليفرجاج واليفرجاجه واليفرجاجه۔ بزدل۔ ڈر پوک۔ اليفرجاج۔ بہت کہنے والا۔ نغز (ض) نَغَزًا وَنَغُوزًا وَنَغْرًا نَغْرًا الظنن : ہرن کا کودنا۔ اچھلا۔ چھلانگ مارنا — الرّجُلُ : مرنا۔ نَغْرَةٌ : کودنا۔ نَغْرَتِ الْمَرْأَةُ وَوَلَدَهَا : عورت کا بچے کو اچھالنا۔ نَغْرًا وَنَغْرًا الشَّهْمُ : تیر کی درستی کو دیکھنے کے لیے ناخن پر گھمانا۔ تَنَاهَوْا بِأَهْمِ اِجْمَلًا كودنا۔ التفتيز والتفتيزة : کھن جو مکھی میں ادھر ادھر لگا ہوا رہ جائے۔

التفتيز من الظباء : ہرن چھلانگ مارنے والا۔ تَوَاوَزَ الذَّائِبَةُ : جانوروں کی تالکیں۔ الثفاز : ایک شتم کا مکھل جس میں باہم کودتے ہیں۔

نفس (س) نَفْسًا وَنَفَاسَةً بِالشَّيْءِ : بھل کرنا — عَلَى فُلَانٍ بِتَعْتِيرٍ : حد کرنا (— نَفَاسَةً الشَّيْءِ : حَلِي فُلَانٍ : ناال سمنا۔ نَفَسَةٌ (ن) نَفَسًا بِنَفْسٍ (ای بعین) نظرد لگانا۔ نَفَسَتْ (س) وَوَلَفَسَتْ وَنَفَسًا وَنَفَاسَةً وَنَفَاسًا : الْمَرْأَةُ غَلَامًا : زچہ ہونا۔ پچہ جنا۔ نَفَسَ فُلَانٌ : پیدا ہونا۔ صفت منفوض۔ کہا جاتا ہے "وَرِثَ فُلَانٌ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَنْفَسَ" فلاں اس کا پیدا ہونے سے پہلے وارث ہوا۔

نفس (ک) نَفَاسَةً وَنَفَاسًا وَنَفُوسًا وَنَفَسًا : نفس و مرغوب ہونا۔ نَفَسٌ تَلْفِيضًا عَنهُ الْكُزْبَةُ : غم دور کرنا۔ غم سے رہائی دینا۔ کہا جاتا ہے "نَفَسَ فُلَانٌ" اس نے فلاں کو صلت دی یا اس کے غم کو زائل کیا نَفَسَتْ لِي الْأَمْرُ : ترغیب دینا۔ نَفَسَ نَفَاسًا وَنَفَاسَةً فُلَانًا فِي الْأَمْرِ : باہم فخر کرنا۔ باہم مقابلہ کرنا — لِي الشَّيْءِ : مبالغہ کرنا۔ گراں قیمت کرنا۔ کرم میں مقابلے کی رغبت کرنا۔ أَنْفَسَ الشَّيْءُ : نفس ہونا — الشَّيْءُ فُلَانًا : پسند آنا — فُلَانًا فِي الشَّيْءِ : رغبت دلانا۔ تَنَفَّسَ : سانس لینا — الصنبح : صبح کا روشن

کرنا — الظنن : ہرن کا بھگانا۔ اِسْتَنْفَزَ فُلَانٌ بِغُوزِيْنٍ : کپڑے لے جا کر گم کر دینا۔ التفر : مع۔ الثافر کی جمع۔

التفر والتفرقة : بھانگنے والوں کا گروہ۔ جگھو لوگوں کی جماعت۔ معاملہ میں آگے رہنے والوں کی جماعت۔ تین سے دس تک کی جماعت التفرقة : تفر کا اسم مرہ۔ تفرقة الرّجُل : خاندان کہا جاتا ہے عَفْرِيْفَرُو وَعَفْرِيْفَرُو تَالِخِ مَمْلِ كَيْ طَوْرٍ رِيْمِيْنِ عَيْبِثٍ وَسَمْرَشٍ اِدْرِيْاِيْ عَفْرِيْفَةُ يَفْرِيْفَةُ وَعَفْرِيْفَتُ يَفْرِيْفَتُ وَعَفْرِيْفَةُ يَفْرِيْفَةُ التفر : سارے لوگ۔ تین سے دس تک مردوں کی جماعت۔ ج الففار۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَةٌ نَفْرًا أَوْ فِلَانَةٌ أَنْفَارًا" یعنی تین شخص۔ نَفْرُ الرّجُلِ : مرد کا قبیلہ۔

يَوْمَ التفر والتفر والتفر والتفر : جانوروں کی تالکیں۔ حاجیوں کا مٹی سے مکہ معظمہ کی طرف واپس ہونے کا دن اور وہ ذی الحجہ کی بارہویں تاریخ ہے۔

التفرقة : حکم۔ فیصلہ (— والتفرقة) نظرد سے حفاظت کے لیے تعویذ وغیرہ۔

الففار : مع۔ اڑیل ہونا۔ کہا جاتا ہے "لِي الذَّائِبَةُ يَفَارًا" چربا یہ میں اڑیل ہونے کی عادت ہے۔

الففارة : حکم۔ فیصلہ۔ مطلوب سے جو غالب ہے۔

الثافر : فاف۔ غالب۔ ج نَفْرًا وَنَفْرًا الثافر : الثافر کا مؤنث۔ تافرقة الرّجُلِ وَنَفْرُوتُهُ : مرد کا خاندان۔

التفر والتفر والتفر والتفر : بھانگنے والا۔ بہت تیز بھانگنے والا۔

التفتيز : مع۔ دس مردوں سے کم کی جماعت۔ کوچ کرنے والوں کی جماعت یا جگھو لوگوں کا گروہ۔ التفتيز : بگل (دخیل) ج الففار۔ والتفتيز النعام : دشمن سے مقابلہ کیلئے عوام کا اٹھ کھڑا ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "مَا هُوَ يَتَفَتِيْزُ فُلَانًا" وہ فلاں کا فخر کرنے میں مساوی نہیں۔

التفاريق : چڑا۔ چڑے۔ واحد نَفْرُوْرُ۔ المُسْتَنَفَرُ : دفع۔ ڈر پایا ہوا۔

ہوتا۔ نَقَعْتُ السُّوقَ: گرم بازاری ہونا۔
 نَقَعَ (ن) نَقَعُوا الرَّجُلَ أَوْ الدَّابَّةَ: مرزا۔ روح
 لکنا۔ — النُّعْجُ: زخم کا پھیل جانا۔
 نَقَعَ (ن) وَ نَقِيَ (س) نَقَعًا النَّيْبُوعُ: جنگلی
 چوہے کا سوراخ سے لکنا۔ سوراخ میں داخل
 ہونا۔ (ضد)
 نَأْفَقَ مَنَافِقَهُ وَ يَفَاقُ فِي دِينِهِ: دل میں کفر
 چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنا۔ صفت منافق۔
 نَأْفَقَ النَّيْبُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ داخل
 ہونا۔
 أَلْفَقَ: حجاج ہونا۔ توشہ ختم ہونا۔ — المَنَالُ:
 خرچ کرنا۔ — المَنَالَةُ: سامان رائج کرنا۔
 أَلْفَقُوا: رائج تجارت والی قوم ہونا۔ — الرَّجُلُ:
 سامان کو رائج کرنا۔
 تَنَفَّقَ النَّيْبُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ سے
 لکنا۔ — النَّيْبُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ سے
 لکنا۔ سوراخ میں داخل ہونا (ضد)۔
 اِسْتَنَفَّقَ الرَّجُلُ: سرنگ میں داخل ہونا۔
 — النَّيْبُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ میں داخل
 ہونا۔ سوراخ سے لکنا (ضد)۔ — النَّيْبُوعُ: جنگلی
 چوہے کا سوراخ سے لکنا۔
 اِسْتَنَفَّقَ المَنَالُ: بال ختم کرنا۔
 اَلْتَفَّقَ: سرنگ۔ جِ اَلْتَفَّقِ:
 التَّفْقِ: جلدی منتقل ہونے والا۔ کہا جاتا ہے
 فَرَسٌ يَتَفَّقُ العُجْرِي: جلدی تھکنے والا گھوڑا۔
 اَلْبِقَاقُ وَ المَنَافِقَةُ: مہ۔ مہانہ کا فصل۔
 التَّفَقَّةُ: اِنْفَاقِ كَالِاسْمِ: خرچ۔ جِ تَفَقَاتِ وَ
 يَفَاقُ وَ اَلْفَاقِ:
 التَّالِقِ: فَا — مِنَ التَّهْلُوعِ: رائج سامان۔
 الدَّالِقَةُ: التَّالِقِ كَالِاسْمِ: منگ کا نفع۔
 التَّالِقَاءُ: جِ تَوَالِقِ وَ التَّفَقُّعِ وَ التَّفَقُّعَاءُ: جنگلی
 چوہے کے پوشیدہ سوراخوں میں سے ایک
 سوراخ۔
 تَنَفَّقَ السَّرْوَالُ: ہار بچھامہ کا نفع۔
 اَلْمِنْفَاقُ: بہت خرچ کرنے والا۔
 المَنَافِقُ: دل میں کفر اور زبان سے ایمان
 ظاہر کرنے والا۔
 المَنَفَقَةُ: پلٹ زواج پذیرگی اور اسی سے

بَانِدِيهِمُ التَّفَاقَاتِ“ نفع دینے والے اس حال
 میں لگے کہ ان کے ہاتھوں میں نفع دیکھنے کے
 آلات تھے۔ — التَّفَاقَةُ: چھٹی۔
 التَّفَاقَانُ: کھانسی کے مشابہ۔ غصہ کے وقت
 پھولنا۔
 التَّفِيطُ وَ المَنْفُوطُ: ہاتھ میں آبلہ والا۔ سَوْتُ
 نَبِيضَتِهِ وَ مَنْفُوطَةٌ:
 التَّفَاقِيحُ: مَترَقُ كَمَا سِ يَامُوسَ بَمَارِكِي پَمَلِ
 كَمَا سِ: وَاحِدٌ نَفْطُوزَةٌ:
 تَفْعَةٌ (ف) نَفْعًا كَبَدًا: نفع دینا۔
 اِنْفَعُ الرَّجُلُ: لَاحِظِيهِ كِي تِجَارَتِ كَرْنَا:
 اِنْتَفَعُ بِهِيَ مَبِوتَةً: فَا نَدَا اِغْنَا:
 اِسْتَنَفَعَهُ: فَا نَدَا طَلِبُ كَرْنَا:
 النِّفْعُ: فَا نَدَا: نفع۔ خیر جو مطلوب تک پہنچنے کا
 ذریعہ ہو۔
 النِّفَاعُ وَ التَّفِيعَةُ: مَنفَعٌ: فَا نَدَا: كَمَا جَا تَا بَ
 “هُوَ حَاجِبُ التَّفِيعَةِ“ اِس كَالنِّفْعِ مَوْجُودٌ بَ:
 التَّفِيعَةُ: نفع کا اسم مرہ۔ لاشعری اس وجہ سے کہ
 اِس كِي نَارٌ سَ فَا نَدَا حَاصِلٌ هُو تَا بَ: جِ نَفْعَاتِ:
 اَلْبِفْعَةُ: نفع کا اسم نوع۔ چڑے کا گلہ جو توشہ
 دان کے دو لوں جانب لگا ہوا ہے جِ نفع و نفع۔
 التَّفَاقَةُ: ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے۔
 التَّالِقُ: فَا نَدَا: تَعَالَى كَ اِسَا نَ حَسْبِي مِي سَ
 بَ:
 التَّالِقَةُ: جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کہا جاتا
 ہے “مَنَافِقَتَيْنِ فَلَا يَبَاقِعَةُ“ فلاں نے مجھ کو کچھ
 بھی نفع نہیں پہنچایا۔
 النِّفَاعُ: بہت فائدہ پہنچانے والا۔
 التَّفُوعُ: بہت فائدہ پہنچانے والا۔ جِ نفع۔
 المَنَفَقَةُ: ہر چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔
 فَا نَدَا: جِ مَنَافِقِ: مَنَافِقِ الدَّارِ: گھر میں آرام کی
 چیزیں۔ جیسے کتوں اور دھونے دھانے کی جگہ
 وغیرہ۔
 نَقَعْتُ (ف) نَقَعُوا وَ نَقَعُوا وَ نَقَعْتُ (س) نَقَعًا
 وَ نَقَعْتُ بَدَةً: ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔ کام کرنے کی
 وجہ سے سوچ جانا۔
 نَقَعَ (ن) نَقَعًا وَ نَقِيَ (س) نَقَعًا الشَّيْءُ خَمَمَ
 ہوتا۔ کم ہونا۔ نَقِيَ التَّبِيعُ: خرید و فروخت رائج

النِّفْضُ: شد کی کسی کی بیٹ۔
 اَلْبِنْفِضَةُ: جاسوس کی جماعت۔ جِ نَقَائِضِ:
 التَّفَاقِضُ: کٹری پیمیک کر آئندہ کی خبر دینے
 والے۔ سبے آؤت۔
 اَلْاِنْفَاقُ: مہ۔ بھوک۔ حاجت۔
 اَلْاِنْفَاقُ: درخت کے بیجے گرے ہوئے
 پھل۔ وَاحِدٌ اِنْفَاقَةٌ:
 اَلْمِنْفَاقُ: چھانچ۔ سوپ۔ پکھا۔ () —
 وَ اَلْمِنْفَاقُ: چادر وغیرہ سے بچھا کر پتے یا میوے
 جھاڑیں۔
 اَلْمِنْفَاقُ مِنَ الدَّجَاجِ: مَرْتِي حَوَافِ سَ دَ سَ
 كَر كَر كِي هُو:
 اَلْمَنْفُوقُ: مہ۔ تپ۔ لڑو زہ۔
 نَقَعْتُ (س) نَقَعُوا وَ نَقَعُوا وَ نَقَعْتُ بَدَةً: ہاتھ
 کا آبلہ دار ہونا۔
 نَقَطَ (ض) نَقَطًا غُضْبَانًا كَمَا هُو تَا بَ قَصْرَ سَ
 بَمَرْكِ اِغْنَا:
 نَقَطْتُ (ض) نَقَطُوا وَ نَقَطُوا العِزَّةُ: بکری کا
 چھینکا۔ — اَلْقِدْرُ: ہانڈی کا جو ش مارنا۔ نَقَطَ
 العَلْبِيُّ: ہرن کا آواز کرنا۔ — الرَّجُلُ: مہم
 گنٹو کرنا۔
 تَنَاقَطَتِ اَلْقِدْرُ: ہانڈی کا جھاگ پھینکا۔
 تَنَقَطَ: غُضْبَانًا كَمَا هُو تَا بَ قَصْرَ سَ بَمَرْكِ اِغْنَا:
 تَنَقَطَتِ اَلْبِدَةُ: ہاتھ کا زخمی ہونا یا آبلہ والا ہونا۔
 التَّفَطُّ وَ اَلْبِنْفُوطُ: اَلْبِنْفُوطُ: اَلْبِنْفُوطُ: اَلْبِنْفُوطُ:
 جلد آگ پکھلے تپا ہے اور جس سے آگ جلانے کا
 کام لینے ہیں اور اس سے علاج بھی کرتے ہیں۔
 التَّفَطُّ: جھپک۔ آبلہ۔ آج کل کی زبان میں نفظ کا
 اطلاق مٹی کے تیل پر بھی ہے۔
 التَّفَطُّ وَ اَلْبِنْفُوطُ: اَلْبِنْفُوطُ: اَلْبِنْفُوطُ:
 التَّفَطُّ: جلدی غُضْبَانًا كَمَا هُو تَا بَ قَصْرَ سَ:
 التَّفَاقَةُ: بکری۔ بَدَةُ نَافِقَةٌ: آبلہ دار ہاتھ
 زُغُوَةٌ نَافِقَةٌ: بلبہ والے جھاگ۔
 التَّفَاقُ: معدن سے نفظ نکالنے والا۔ نَقَطَ
 بچھیننے والا۔ جِ نَقَاطَةٌ وَ نَقَاطُونَ:
 التَّفَاقَةُ وَ التَّفَاقَةُ: نَقَطَ كَمَا مَدَنُ: اَلْبِنْفُوطُ:
 جِ رَاغِ: تَا بَ كَا اَلْبِنْفُوطُ: اَلْبِنْفُوطُ: اَلْبِنْفُوطُ:
 پیمیک کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے “خَرَجَ التَّفَاقُونَ

سے "النَّمِيْنُ الْكَادِبَةُ مُتَّفَقَةٌ لِلْمَلْعَةِ مَصْحُفَةٌ لِلْبُرْكَاتِ" یعنی جموں قسم سامان کو رائج کر دیتی ہے لیکن برکت کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔

التَّفَكُّةُ: کان کی لو کے قریب جڑے کی جڑ میں چھوٹے چھوٹے غرود۔

نَقْلٌ (ن) نَقْلًا: قسم کھانا — الرَّجُلُ: کسی کو بغیر ارادہ و ثواب کے عطیہ دینا۔ نَقْلَةُ التَّقْلِ: زائد عطیہ دینا۔ نَقْلُ الْقَائِدِ الْخُنْدِ: مال غنیمت تقسیم کرنا — الرَّجُلُ عَنْ نَسَبِهِ: نفی کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَنْفَلُ عَنْ نَفْسِكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا" یعنی جو کچھ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو دور کر دو اگر تم سچے ہو۔

نَقْلَةٌ: قسم کھانا۔ حصہ سے زائد دینا۔ نَقْلَةُ التَّقْلِ: غنیمت دینا۔ نَقْلٌ عَنْ فُلَانٍ: دفع کرنا۔

أَنْفَلَهُ: التَّقْلُ: غنیمت دینا۔ أَنْفَلُ لَهُ: قسم کھانا۔

تَنَقَّلَ: لعل نماز ادا کرنا — عَلَى أَصْحَابِهِ: مال غنیمت میں سے ساتھیوں سے زیادہ حصہ لینا۔ وَتَنَقَّلَ مِنْهُ الشَّيْءُ: طلب کرنا۔

إِنْتَقَلَ: لو اٹل پر حنا — الشَّيْءُ مِنْ فُلَانٍ: طلب کرنا — مِنَ الْأُمُورِ وَالْكَلَامِ: بیزار ہونا۔ کہا جاتا ہے "قَالَ لِي قَوْلًا فَانْتَقَلْتُ مِنْهُ" اس نے مجھ سے ایک بات بیان کی تو میں نے اس سے بیزاری ظاہر کی — مِنَ الْقَوْمِ: قوم کی بدوسے دور رہنا۔ اِنْتَقَلَ: عذر بیان کرنا۔ قسم کرنا۔

التَّقْلُ: فرائض و واجبات سے زائد کام واجبات و فرائض سے زائد کام جو کرنے کو کہا جائے۔

التَّقْلُ: غنیمت۔ سید۔ زیادتی۔ کہا جاتا ہے "لِيَهْدِيَ النَّفْلَ عَلَيَّ ذَاكَ" اس چیز کو اس پر زیادتی ہے۔ ج نفل و انفل۔ النفل ایک خوشبودار قسم کی گھاس جس سے گھوڑے موٹے ہوتے ہیں و احد نَقْلَةٌ۔

التَّائِيْلَةُ: غنیمت۔ عطیہ۔ فرائض و واجبات سے زائد کام۔ پوتہ۔ ج نکوال۔ کہا جاتا ہے "هُوَ كَثِيْرُ النَّوَالِ" وہ بہت بخشش اور عطایا والا ہے۔

النَّفْلُ: قمری مینے کی چوتھی یا پانچویں چھٹی راتیں۔

التَّقْوَلُ: بڑا فیاض۔ خوبصورت جوان۔ ج نُوْلُوْنَ: التَّقْوَلُ: سمندر۔ عطیہ۔ نرجبو۔

التَّقْوَلَةُ: نمک دان۔

التَّقْنَفُ: نضاء آسانی۔ آسمان و زمین کا درمیان۔

دیوار کے بالائی اور زیریں حصے کے درمیان۔ کتوئیں کے کنارے سے یہ تک کا حصہ۔ پہاڑ کا دیوار کے مانند گوشہ۔ بیابان ج نقالیف و نقالیف الدار: گھر کے اطراف و نواحی (والتقنفاق) دو پہاڑوں کے درمیان کا خلا۔ ذور۔

نَقْفَةٌ (ف) نَقْفُوْهَا الرَّجُلُ: کمزور دل بزدل ہونا۔

— الْجَمَلُ: دشواری کے بعد مطیع ہونا۔

نَقْفَتُ (س) نَقْفَتَا نَفْسِهِ: تھکنا۔

نَقْفَةٌ وَنَقْفَةٌ التَّائِيْلَةُ: اور نفی کو تھکانا اور کہا جاتا ہے "أَنْفَلَهُ مِنْ مَّالِهِ" اس نے اس کو تھوڑا مال دیا۔

إِسْتَنْفَتَ الرَّجُلُ: آرام لینا۔

التَّائِيْلَةُ: تھکا ہوا ج نَقْفَةٌ — وَالنَّقْفُوهُ: کمزور دل۔ بزدل۔

جَمَلٌ مُنْقَفٌ: تھکا ہوا اونٹ۔

نَقْفَاءُ يَنْقُوهُ نَقْوًا لَعْنَتٌ ہے۔ نَقْفَاءُ يَنْقُوهُ يَهَائِي میں۔

نَقْفَاءُ الشَّيْءِ وَنَقْفُوهُ: ہر چیز کا زوری حصہ۔ چیز کا بقیہ۔ النَقْفُوهُ: جلا وطنی۔

نَقْفَى يَنْقُوهُ نَقْفًا الشَّيْءِ: انکار کرنا۔ نَقْفَاءُ عَهْدٌ: عہدہ کرنا۔ ہٹانا۔ نفسی الرَّجُلُ: قید خانہ میں قید کرنا۔

— الرَّجُلُ مِنْ بَلَدِهِ: جلا وطن کرنا — السَّهْلُ الْعُقَاءُ: سیلاب کا کوزا کرکٹ بہا کر لانا — السَّحَابَةُ مَاءٌ هَا: بادل کا پانی برساتا۔

"نَقْفَى يَنْقُوهُ نَقْفًا وَنَقْفًا الْعَصْرُ هِي الدَّرَاهِمُ" صرف کا درہم کو پرکھنے کے لئے نکھیرنا۔ نَقْفَتِ الرَّيْحِ الشَّرَابُ: ہوا کا مٹی کو اڑانا۔

نَقْفَى يَنْقُوهُ نَقْفًا وَنَقْفًا عَهْدٌ: دور ہونا — الشُّعْرُ: بال گرنا و اِنْتَقَى الشَّيْءُ: نابود ہونا۔

إِنْتَقَى مِنْ وُلْدِهِ: بچہ کا انکار کرنا۔ اِنْتَقَى فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ: کراہت کے ساتھ اعراض کرنا۔ و نَقْفَاءُ فَانْتَقَى: اس نے اسے بیٹا ہٹا دیا۔

نَقْفَاءُ: نفی کرنے میں مبالغہ کرنا۔

نَقْفَاءُ مَنَافَاةٌ: ایک دوسرے کو ہٹانا اور کہا جاتا ہے "هَذَا يَنْقَاهُ ذَاكَ" یعنی یہ اس کے منافی و مخالف ہے۔

تَنَافَى تَنَافَايَا الرِّجَالِ: ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ ایک دوسرے کے مخالف ہونا۔ تَنَافَيْتِ الْأَشْيَاءُ: مخالف ہونا۔ تہاين ہونا۔

نَقَاءُ الشَّيْءِ وَنَقَائُهُ وَنَقِيْشُهُ وَنَقِيْشُهُ وَنَقَائِيْشُهُ وَنَقَائِيْشُهُ وَنَقِيْشُهُ وَنَقَائِيْشُهُ: وجہ سے دور کر دیا جائے۔ چیز کا بقیہ۔

النَّقِيْشَةُ: نفی کا اسم مرہ۔ کھجور کے پتوں کا دستہ خوان جس پر گوشت یا پیاز دھوپ میں خشک کیا جائے یا ہوا میں پھیلایا جائے۔ ج نَقَائِيَاتُ۔

النَّقَائِيَانِ: سہ۔ درختوں کی جڑ میں ہوا سے جمع شدہ مٹی۔ ٹھکر کا بڑا حصہ جو ایک طرف کو ہو جائے۔

النَّقَائِي: فاد و حکارہ ہوا۔ دور کیا ہوا۔

النَّقِيِي: ٹاپو کیا ہوا۔ جھاگ جس کو ہانڈی چھینکتی ہے۔ چکی سے نکلا ہوا آٹا۔ گھوڑوں کے سم سے نکھری ہوئی مٹی، نکھری وغیرہ۔ درختوں کی جڑ میں ہوا سے جمع شدہ مٹی۔ ٹھکر کا بڑا حصہ جو ایک طرف کو ہو جائے۔ ڈھال جو کھجور کے پتوں سے بنائی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْبَيْتُ نَقِيِي" یعنی اس کے باپ نے بیٹا ہونے سے انکار کر دیا ہے۔

النَّقِيِيَّةُ: النَّقِيِي كَامُوْنَتُ: کھجور کے پتوں کا دستہ خواجس پر گوشت یا پیاز دھوپ میں خشک کیا جائے یا ہوا میں پھیلایا جائے۔

النَّقِيِي: دور کیا ہوا۔ ہٹایا ہوا دھکارا ہوا —

فِي الْكَلَامِ: اثبات کے خلاف۔

النَّقِيِي: جلا وطنی کی جگہ۔ ج مَنَافِي۔

نَقِي (ض) نَقِيْقًا الصَّفَدُغُ: مینڈک کا لڑانا یہ لفظ مرثی، چکور، چھو، شتر مرغ اور ملی وغیرہ کیلئے بھی مستعمل ہے) اور کہا جاتا ہے "نَقْفُ حَصَادِيْعٌ يَنْقُوهُ" یعنی وہ بھوکا ہوا۔

أَنْقَى: بڑانے والا ہونا۔

النَّقَائِقُ: اسم مبالغہ۔ مینڈک۔

النَّقَائِقُ: النَّقَائِقُ كَامُوْنَتُ: مینڈکی۔

النَّقُوْقُ: چلانے والا۔ کہا جاتا ہے "حَصَادِيْعٌ نَقُوْقٌ" ج نَقْفَى وَنَقِيِي۔

مَنَابِلِ الْإِنْسَانِ : عمدہ خصائل اور شریف اطلاق۔

نَقَبْتُ (ن) نَقَبْنَا الْعَظْمَ : بڑی سے گودا نکالنا۔

نَقَبْتُ (ن) نَقَبْنَا وَانْقَبْتُ الْعَظْمَ : بڑی سے گودا نکالنا — الشَّيْءُ الْمُنْدَفُونُ : کھود کر نکالنا۔

نَقَبْتُ الرَّجُلَ فِي الْأَمْرِ وَالسَّيْرِ : دوڑنا —

الْحَدِيثُ : بات میں گڑبڑ کرنا — فَلَانًا

بِالْكَلَامِ : بات سے تکلیف پہنچانا — الْأَرْضُ

بِنِدْوِهِ : کدال سے کھودنا — عَنِ الشَّيْءِ : کھود کرید کرنا۔

نَقَبْتُ الرَّجُلَ : دوڑنا۔

نَقَبْتُهُ : اپنی طرف مائل کرنا۔ مہربان بنانا۔

نَقَبْتُ مَهْمَعَةً : جائیداد کی دیکھ بھال کرنا۔

نَقَابٌ : بچو۔

النَّقَبُ : مہ - چغل خوری۔

نَقَلْتُ نَقْلَةَ الشَّيْخِ : بوڑھے آدمی کا خاک اڑاتے ہوئے چلنا۔

نَقَعَ (ف) نَقَعًا وَنَقَعَ الْعَظْمَ : بڑی سے گودا نکالنا — الْجُدْعُ : جھڑکی گریں پھیل کر

صاف کرنا — الشَّيْءُ : چھیلنا اور خالص کوروی سے جدا کرنا۔

نَقَعَ وَانْقَعَ الْكَلَامُ : اصلاح کرنا۔ درست کرنا۔

نَقَعَتْ السُّنُونُ الرَّجُلَ : کمزور کر دینا —

وانْقَعَ الرَّجُلُ : قحط یا فقری وجہ سے تلوار کی زین یاں اتار لینا۔

نَقَعَتْ سَحْمُهُ : چربی کم ہونا۔

انْقَعَ الْعَظْمُ : بڑی سے گودا نکالنا۔

النَّقَحُ : مہ - گری کے زمانے کا سفید بادل۔

النَّقَحُ خَالِصٌ رِيثٌ : خالص عرق۔

النَّقْحُ : مہ - طہور۔ معنی کے ساتھ الفاظ کا اختصار۔

نَقَحَهُ (ف) نَقَحًا : مارنا۔ نَقَحَ دِمَاحَهُ : توڑنا۔

انْقَعَ الْمَخُ مِنَ الْعَظْمِ : بڑی سے گودا نکالنا۔

النَّقَاحُ : ٹھنڈا صاف پانی۔ نیند۔ آرام۔ امن۔

وَلِقَاحٌ كُلُّ شَيْءٍ خَالِصٌ : کما جاتا ہے "هَذَا

لِقَاحُ الْعَرَبِيَّةِ" یہ خالص عربیت ہے۔

نَقَدْتُ (ن) نَقَدًا وَنَقَدًا الدَّرَاهِمَ وَعَثَرْتُهَا :

پرکھنا — الْكَلَامُ : کلام کے محبوب و محاسن کو

ہے۔

النَّقَبَةُ : ابتدائی خارش۔ زنگ۔ رنگ۔ چرو۔

سوراخ۔ ایک قسم کا کپڑا جو پانچھام کی مانند باندھا جاتا ہے۔ ج۔ نَقَبٌ۔

النَّقَابُ : کان (جمع ہے اس کا واحد نہیں)۔

النَّقَابُ : مہ - بڑا عالم۔ عورت کے منہ و حاکتے

کا کپڑا۔ سخت زمین کا راستہ۔ بیت اور "فَرَحَانُ لِي

نَقَابٌ" ضرب النمل ہے ان دو معنوں کے جن

میں بولا جاتا ہے جو شکل و شہادت میں مشابہ ہوں

اور کما جاتا ہے "لَقَيْتُهُ نَقَابًا" یعنی میں اس سے رو

در رو ملا یا بغیر وعدہ کے ملا "ووردت الما نَقَابًا"

میں پانی پر اچانک بغیر تلاش کے پہنچ گیا۔

النَّقَابُ : نا۔ ایک بیماری کا نام جو در تک سونے

سے پیدا ہوتی ہے اور یا اس زخم کو کھتے ہیں جو پہلو

میں ہوتا ہے اور اس کا منہ جوف کی جانب اندر کو

ہوتا ہے۔

النَّقَابَةُ : النَّقَابُ كَالْمَوْتِ : مذکورہ بالا زخم۔

النَّقَابُ : کاموں میں گھسنے والا۔ کاموں کو بہت

دریافت کرنے والا۔

النَّقِيبُ : قوم کا گواہ۔ قوم کا ضامن۔ قوم کا

چوہری و سردار۔ نَقِيبُ الْأَشْرَافِ عِنْدَ

الْمُسْلِمِينَ : لوگوں کے احوال کی کھتیش کرنے

والا۔ ج۔ نَقِيبَةُ النَّقِيبِ : بالسری۔ ترازو کی زبان۔

چھدا ہوا۔ كَمَلْتُ نَقِيبَتِي : کتا جس کے گلے میں

سوراخ کر دیا گیا ہو تاکہ اس کی آواز بہت ہو جائے

اور ایسا بخیل آدمی کرتا ہے تاکہ کتے کی آواز سن کر

سمان نہ آجائیں اور کھانا پڑے۔

النَّقِيبَةُ : مؤنث النَّقِيبِ : نفس۔ عقل۔

طبیعت۔ مشورہ۔ رائے کا نفاذ۔ کما جاتا ہے فَلَانٌ

مَيْمُونٌ النَّقِيبَةُ فَلَانٌ يَأْكُ نَفْسَ بِيءِ

الْمَنْقَبِ : جانور کے پیٹ میں سوراخ کرنے کی

جگہ۔

الْمَنْقَبُ : پہاڑی راستہ۔ ج۔ مَنَابِلُ

الْمَنْقَبِ : پہاڑی راستہ۔ بہت بحث و تحقیقات

کرنے والا عالم۔ (—) وَالْمَنْقَبَةُ : شتر جس سے

نَقَبْتُ (ن) نَقَبْنَا الْحَائِظَ : دیوار میں سوراخ

کرنا — النُّحْفُ : سوزے میں پیوند لگانا —

فَلَانٌ فِي الْأَرْضِ : جانا — عَنِ الْاِخْتِيَارِ : کھود

کرید کرنا یا خبر دینا — النُّوْبُ : بغیر نیند کے

پانچھام بنانا۔ الْفَرْسُ : گھوڑے کا دوڑنے میں

تا کھلیں اکٹھی کرنا اور کما جاتا ہے "نَقَبْتُ الْبِكْبَةَ

فَلَانًا" : فلاں کو تکلیف پہنچی۔

نَقَبْتُ (س) نَقَبْنَا النُّحْفَ الْمَلْيُوسُ : پینے

ہوئے سوزے کا پھنسا ہوا ہونا — الْبَعِيْزُ : اونٹ

کا گھسے ہوئے کھروالا ہونا — الرَّجُلُ : پہاڑی

راستوں میں چلنا — فِي الْبِلَادِ : سیر کرنا۔ ملکوں

میں چلنا۔

نَقَبْتُ (ن) نَقَبَانَةً وَنَقَبْتُ (س) نَقَبْنَا وَنَقَبْتُ

(ك) نَقَبَانَةً عَلَى الْقَوْمِ : سردار قوم ہونا (نَقَبَانَةً

او نَقَبَانَةً يَأْتِي مَدْرِيْنِ او رِيَا نَقَبَانَةً بِالْكَسْرِ اسم

ہے اور نَقَبَانَةً بِالضَّمِّ مصدر ہے)

نَقَبْتُ فِي الْأَرْضِ : بھانگتے ہوئے ملک میں

گھسنا — عَنِ الشَّيْءِ : خوب اچھی طرح کھود

کرید کرنا۔

نَقَبْتُ نَقَابًا وَمَنَابِلَةً : مناقب پر فخر کرنا۔ نَقَابَةُ

نَقَابًا : زور زور ملنا یا بغیر وعدے کے ملنا اور کما

جاتا ہے "وَرَدْتُ الْمَاءَ نَقَابًا" میں پانی پر بغیر

تلاش کے پہنچ گیا۔

انْقَبْتُ فِي الْأَرْضِ : نلک میں چلنا الْبَعِيْزُ :

گھسے ہوئے کھروالا ہونا — الرَّجُلُ : قوم کا

سردار بننا — فَلَانٌ : گھسے ہوئے کھروالے

اونٹ کا مالک ہونا۔

نَقَبْتُ عَنِ الشَّيْءِ : کھتیش میں مبالغہ کرنا۔

نَقَبْتُ وَانْقَبْتُ الْمَرْأَةُ : عورت کا نقاب

ڈالنا۔

النَّقَبُ : مہ - سوراخ۔ پہلو کا زخم (—

وَالنَّقَبُ) پہاڑی راستہ ج۔ نَقَابُ وَانْقَابُ

نَقَبُ الْعَيْنِ : موتی یا بند کا علاج۔

النَّقَبُ وَالنَّقَبُ وَالنَّقَبُ : کھجلی۔

النَّقِيبَةُ : نقاب ڈالنے کی بہت۔ کما جاتا ہے

"إِمْرَأَةٌ حَسَنَةٌ الْبَقِيبَةُ" عمدہ طریقے سے نقاب

ڈالنے والی عورت۔ نیز کما جاتا ہے "إِنَّ عَلَيْنَهُ

نَقِيبَةً مِنْ كَذَا" اس کے اوپر یقیناً فلاں چیز کا ش

ظاہر کرتا۔ نَقَدَ فُلَانًا و لِفُلَانِ النَّمْنِ: نظر ادا کرتا۔ نَقَدَهُ دِرْهَمًا: دینا۔ الطَّائِرُ النَّخَعُ او الحَبُّ: چرچ مارنا۔ الرَّجُلُ الشَّقِيُّ وَاوَالِي الشَّقِيِّ يَنْظُرُوهُ: چپکے چپکے نظر ڈالنا۔ چپکے چپکے گھورنا۔ نَقَدْتُهُ الْحَيْثَةَ: سانس کا ڈنسا۔

نَقَدَ (س) نَقَدَ الصَّرْسُ او القُرُونُ: دانست یا سبک کا ٹوٹنا۔ کرم خوردہ ہونا۔ صفت نَقَدٌ۔ الحَاظِرُ: کھر کا چمیل جانا۔ الجِدْعُ: حد کا کیڑوں کے کھانے سے کھر کھلا ہونا۔

النَّقْدُ الشَّجَرُ: درخت میں سے ہوتا۔ نَاقِدَةٌ مُنَاقِدَةٌ: کسی معاملہ میں جھگڑا کرتا۔ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَغَيْرَهَا: دراہم وغیرہ پر کھنا۔ تَنَاقَدَ الدَّرَاهِمُ: دراہم پر کھنا اور کھونا طبعیہ کرتا۔

النَّقْدُ الدَّرَاهِمُ: نقد وصول کرتا۔ کھونا طبعیہ کرتا۔ الشُّغْرُ عَلَى قَائِلِهِ: شعر کے میوب ظاہر کرنا۔ الکَلَامُ: کلام کی تنقید کرتا۔ میوب و محاسن ظاہر کرنا۔ الاِزْضَةُ الجِدْعُ: دیکھ کا کھر کھلا کرنا۔ النَّقْدُ الوَلْدُ: لڑکے کا جوان ہونا۔

النَّقْدُ: مہ۔ قیمت جو فوراً ادا کی جائے۔ درہم۔ ج نَقْدُوهُ: کہا جاتا ہے "دِرْهَمٌ نَقْدٌ" عمدہ کھرا درہم۔ النَّقْدَانُ: چاندی و سونا۔ النَّقْدُ والنَّقْدُ: کم گوشت والا۔ دیر سے جوان ہونے والا۔

النَّقْدُ: مہ۔ میوزوں کی ایک قسم جن کی ٹانگیں پھولیں اور چہرہ بد شکل ہوتا ہے۔ واحد نَقْدَةٌ مذکر مؤنث دونوں کیلئے ج نَقَادٌ و نِقَادَةٌ: النَّقْدُ: کہیں لوگ۔ النَّقْدُ مِنَ الصَّبِيَّانِ: خمیر و ذلیل پتہ کہ جس پر جوانی کا اثر ظاہر نہ ہو۔ النَّقْدُ النَّقْدُ: ایک قسم کا درخت واحد نَقْدَةٌ و نَقْدَةٌ۔ النَاقِدُ: نا۔ ج نَقْدَةٌ و نَقَادٌ۔

النَّقْدُ الأَنْقَدُ: سی۔ اور امثال عرب سے ہے "بَاتَ بِبَيْلٍ أَنْقَدٌ" یعنی وہ سویا نہیں اس لئے کہ سی پوری رات نہیں سوتا۔

النَّقْدُ و الإِنْقِدَانُ: کھرا۔ النَّقَادُ: دراہم وغیرہ کا پرکھنے والا۔ زابحی النَّقْدُ (پھول ٹانگ والی میوز کا چرواہا) و مَنَاقِدُ الطَّائِرِ: پرندے کی چرچ ج منقید۔

المُنْتَقَدُ: مصدر می یعنی المنتقد۔ نَقَدَ (ن) نَقَدًا و نَقَدًا و نَقَدًا فُلَانًا بَيْنَ كَذَا: نجات دینا۔ جھڑانا۔

نَقَدَهُ وَاِسْتَنْقَدَهُ: مَن كَذَا: نجات دینا۔ جھڑانا۔

نَقَدَ (س) نَقَدًا: نجات پانا۔ النَّقْدُ: مہ۔ سلامتی۔ کھیلنے والے کی سلامتی کی دعا کے لئے کہا جاتا ہے "نَقَدًا لَكَ" اور اس کی اصل "نَقَدَكَ اللَّهُ نَقْدًا" ہے یعنی اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔

النَّقْدُ: مہ۔ جھڑایا ہوا۔ اور کہا جاتا ہے "مَعَالَةُ شَدَقًا وَلَا نَقْدًا" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ التَّقْيِيدُ: دشمن کے ہاتھ سے جھڑایا ہوا۔ التَّقْيِيدَةُ: دشمن کے ہاتھ سے جھڑایا ہوا۔ جیسے گھوڑا زرہ وغیرہ۔ ج نَقَائِدُ اور کہا جاتا ہے "هُوَ لَيَقْبِدَةُ بؤْمٍ" وہ سختی سے جھڑایا ہوا ہے۔

النَّقْدُ: سی۔ نَقْرَةٌ (ن) نَقْرًا: مارنا۔ نَقْرَ العُزْدَاو الدَّفَّ: بریل یا دف بجانا فلاناً: عیب لگانا۔ الشَّقِيُّ جَوِيحٌ سے سوراخ کرنا۔ الطَّائِرُ النَّيْصَةُ عَنِ النَّقْرِ: پرندہ کا بچہ نکالنے کیلئے اڑنے میں سوراخ کرنا۔ نَقْرُ فِي الحَجَرِ: پتھر پر کھنا۔ لُحِي النَّاقِرُ: نیکل میں بھوننا۔ الطَّائِرُ الحَبُّ: پرندہ کا ادر ادر سے دانہ چھٹانا۔ الحَجَرُ او العَشْبُ: کلزی یا پتھر کھودنا۔ نَقَرَتِ الحُجَيْلُ بِحَوَالِهَا: گھوڑوں کا کھروں سے کھودنا۔ نَقْرَ عَنِ الأَمْرِ: چھان بین کرنا۔ نَقْرَ فُلَانًا: چپکے چپکے زبان کو تالو سے لگا کر آواز نکالنا۔ نَقَرَتِ بِالرَّجْلِ: قوم میں سے علیحدہ بلانا نَقَرَتِ السَّهْمُ الهَدَفَ: تیر کا نشانہ پر لگنا اور پارہ نہ ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "زَمْزَى الوَاهِمِ العَرَضُ فَتَقْرَهُ" تیر چھیننے والے نے نشانہ پر تیر لگایا۔

نَقَرَتِ الشَّاةُ: نقرہ کی بیماری والی ہونا۔ نَقَرَتِ فُلَانًا: بغیر ہونا۔ نَقَرَتِ الشَّاةُ: نقرہ کی بیماری والی ہونا۔ نَقَرَتِ فُلَانًا: بغیر ہونا۔

نَقَرَتِ الشَّاةُ: نقرہ کی بیماری والی ہونا۔ نَقَرَتِ فُلَانًا: بغیر ہونا۔ نَقَرَتِ الشَّاةُ: نقرہ کی بیماری والی ہونا۔ نَقَرَتِ فُلَانًا: بغیر ہونا۔

نَقَرَتِ الشَّاةُ: نقرہ کی بیماری والی ہونا۔ نَقَرَتِ فُلَانًا: بغیر ہونا۔ نَقَرَتِ الشَّاةُ: نقرہ کی بیماری والی ہونا۔ نَقَرَتِ فُلَانًا: بغیر ہونا۔

الشَّقِيُّ: چھان بین کرنا۔ عَلَى فُلَانٍ: عیب لگانا۔ اور بڑی معلوم ہونے والی باتوں کا ذکر کرتا۔ الطَّائِرُ الحَبُّ: پرندہ کا ادر ادر سے دانہ چھٹانا (تشریح مبالغہ کیلئے ہے) نَاقِرَةٌ مُنَاقِرَةٌ و نِقَارًا: منگھو میں لوٹ پھیر کرنا۔ جھگڑا کرنا۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ مُنَاقِرَةٌ" ان کے درمیان جھگڑا ہے۔

أَنْقَرُ عَنهُ: درکنا۔ کہا جاتا ہے "ضَرْبُهُ لَمَّا أَنْقَرُ عَنهُ حَتَّى قَتَلَهُ" اس نے اسے مارا اور نہیں رکھا یہاں تک کہ قتل کر دیا۔ وَأَنْقَرُ الرَّجُلُ: منگھو کر آواز نکالنا۔ چپکے چپکے جانا۔

بَنْقَرُ الشَّقِيُّ: چھان بین کرنا۔ عَلَى الأَهْلِ و العَمَالِ: بددہ کرنا۔ اور أَرَأَيْتَ اللّٰهُ بِكُمْ وَ ذَهَبَ اللّٰهُ بِمَا لَكُمْ (اللہ تعالیٰ مجھ کو تم سے راحت دیں اور تمہارے مال کو ضائع کر دیں) کہا۔

انْقَرَهُ: پسند کرنا۔ انْقَرَى الشَّقِيُّ: چھان بین کرنا۔ انْقَرَهُ و انْقَرَى: قوم کے درمیان سے علیحدہ بلانا۔ القَوْمُ و بالقَوْمِ: خاص خاص لوگوں کو بلانا۔ انْقَرَتِ الحُجَيْلُ بِحَوَالِهَا: کھروں سے کھودنا۔ انْقَرَتِ الشَّيْئُ: نَقْرًا: سیلاب کا کڑھے کر دینا۔ انْقَرَى الشَّقِيُّ: لکھنا۔

النَّاقِرُ: نا۔ نشانہ پر لگنے والا تیر۔ ج نَوَاقِرُ النَّاقِرَةُ النَّاقِرُ کا مؤنث۔ معیبت۔ درست دلیل۔ ج نَوَاقِرُ اور کہا جاتا ہے "أَتَضَيَّ عَنهُ نَوَاقِرُ" اس سے مجھے تکلیف دہ باتیں پہنچیں۔ "وَ أخطأت نَوَاقِرُهُ" یعنی وہ راہ راست پر مستقیم نہیں رہا۔ "وَيَنْتَهُمُ نَاقِرَةٌ و نَقْرَةٌ" ان کے درمیان جھگڑا ہے۔

النَّاقِرُ: صور یا نیکل۔ دل۔ ج نَوَاقِرُ: نَقْرَةُ: پتھر لکھنے سے جو باقی رہ جائے۔ چرچ بھر۔ اور کہا جاتا ہے "مَاتَ لَكَ عَلِيٌّ نَقْرَةً الأَ أَنْقَرُوا" میرے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ لکھ لیا۔

النَّقْرُ: مہ۔ چپکے کی آواز۔ پتھر کی کتابت۔ النَّقْرُ: مجھور کی کھمبل کا کڑھا۔ النَّقْرُ: غضبانگ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَقْرٌ

عَلَيْكَ "وہ تمہارے اوپر غضبناک ہے۔ نقرہ کی بیماری میں جلا۔ اور کہا جاتا ہے "مَالَهُ بِمَوْضِع كَذَا نَقْرًا" اس کے لئے فلاں جگہ میں پانی یا کتوں نہیں ہے۔

النقر۔ مہ۔ کہا جاتا ہے "أَعُوذُ بِاللَّيْمَنِ الْعَقْرِ وَالنَّقْرِ" میں لجاؤں اور ضیاع مال سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔

النقری۔ عیب۔ اور یہ نقر فعل کا اسم ہے اور کہا جاتا ہے "دَعُوهُمْ نَقْرًا" میں نے ان لوگوں کو خاص طور سے بلایا۔ اور اس کے مقابلے میں "الْحَفْلَى" ہے جس کے سینے و عورت عامہ کے ہیں "بَثَاتُ النَقْرَى" وہ عورتیں جو ہر اس شخص کی عیب جوئی کریں جو ان کے سامنے سے گزرے۔

النقرۃ۔ نقر کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے "مَا أَتَابَهُ نَقْرًا" اس نے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا "وَمَا أَغْنَى عَنِّي نَقْرًا" اس نے مجھ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ اور یہ بھیخ نعلی کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے۔

النقرۃ۔ ننگوں میں لوٹ پھیر اور جھگڑا۔ النقرۃ۔ چھوٹا گول گڑھا۔ چاندی سونے کا پھلایا ہوا گڑھا۔ آگے کا گڑھا۔ سرین کے وسط کا گڑھا۔ گردن کے پچھلے حصہ کا گڑھا۔ پرندہ کے اعضاء دینے کی جگہ۔ کھجور کی کھلی کا گڑھا۔ ج نَقْرًا وَنَقْرًا۔

النقرۃ۔ النقر کا مؤنث۔ پست زمین میں بلند جگہ۔

النقرۃ۔ ایک قسم کی بیماری ہے جو بکری اور گاؤں کی ٹانگ میں لاحق ہوتی ہے۔

النقار اسم مبالغہ۔ امور اور خبروں کی چھان بین کرنے والا۔ پتھریا لکڑی میں کھدائی کا کام کرنے والا۔ رکاب یا لکام میں نقش و نگار کرنے والا۔ اس کے پتھر کو الْبِقَارَة کہتے ہیں۔ النقار: ایک چھوٹا سا پرندہ جو درختوں پر چڑھ جاتا ہے اور سوراخ کر کے گیزرے نکالتا ہے۔

النقارۃ۔ النقار کا مؤنث۔

النقیر۔ آواز۔ کھجور کی کھلی کا گڑھا۔ کھدایا ہوا پتھریا لکڑی۔ تھوڑی جگہ کو کھود کر بیڑھی جیسی بناتے

ہیں۔ لکڑی کی جڑ جس کو کھود کر اس میں نیچہ بناتے ہیں اور اس کی نیچہ تیز و تند ہوتی ہے۔ النقیور: اصلیت کہا جاتا ہے "فَلَانٌ كَرِهْتُ النَقِيرَ" فلاں شریف الاصل ہے۔ بہت محتاج ایک کالے رنگ کی کھسی۔ ج نَقِيرًا۔

النقیرۃ۔ چھوٹی شتی۔ الألقفرد۔ کھجور کی کھلی کا گڑھا۔

النقیر۔ مہ۔ سبئی بجانے کے مشابہ آواز۔

المنقور۔ کدال۔ جھجھی۔ ج متناظر۔ المنقور والمنقور۔ شراب بنانے کیلئے لکڑی کا کھدایا ہوا برتن۔ ج متناظر (خلاف قیاس) تنگ منہ کا کتوں یا بہت پانی والا کترا کتوں حوض۔

المنقور۔ بہت کھادودھ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَنْقُورُ الْعَيْنِ وَمَنْقُورُهَا" وہ دھنسی ہوئی آگھ والا ہے۔

المنقار۔ کدال۔ چوچ۔ المنقار۔ چری موزہ کی نوک منقار الدجاجیو و منقار الغراب: دو ستاروں کے نام۔ و منقار الغراب: موزھے کی ایک بڑی جس کو اخوم بھی کہتے ہیں۔

نقر و نقرۃ فی المسکن: اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَالِكَ مَنْقَرًا" کوئی تمہارے لئے گھر بنانے والا نہیں۔

النقرس۔ پیر کے جوڑوں کا آماں۔ ہلاکت۔ بڑی معیبت۔ ماہر رہنما۔ طیب حلاق۔ گلاب کے پھول جیسی ایک چیز جس کو عورتیں بنا کر سر میں لگاتی ہیں ج نَقْرًا۔

النقرس۔ ماہر رہنما۔ طیب حاذق۔

نقر (انض) نقرًا و نقرًا و نقرًا الظننی: ہرن کا کودنا۔ چھلانگ مارنا۔ صفت نالیز: نقرۃ عنہم: روخ کرنا۔ ہانا۔

نقرت الصبی أمہ: بچے کا چھاننا۔ نقر فلانًا: کودنا۔

انقر الرجل: بیٹھ صاف اور بیٹھاپالی پینا۔ ردی مال جمع کرنا۔ نقار کی بیماری والے جانوروں والا ہونا۔ انقر عذوہ: دشمن کو فوراً قتل کرنا۔

عن الشی: برکنا۔ بازار بنا۔

انقزرت الشاة: نقار کی بیماری والی ہونا۔ انقز فلان فلان من صالح: ردی مال دینا۔ انقز فلان شرا الابل: کسی کیلئے بڑھتے اونٹ

پندر کرنا۔ کہا جاتا ہے عطاء فلان فلان ذؤنا فلان: کھلیا علیہ۔

الثاقرة۔ الثاقر کا مؤنث۔ ج نواقر۔ نواقر الذبابة: چھاپی کی ٹانگیں۔

الثقار بالطنج: طامون کے مشابہ جانوروں کا ایک مرض۔

البقر۔ خمس مال کھلیا قسم کے لوگ۔

البقر۔ کنواں۔

البقر۔ لقب۔

البقر۔ لقب کھلیا مال، مزیل اور اونٹی درجہ کے لوگ واحد نقر۔

البقر۔ صاف بیٹھاپالی۔

الثقار و الثقار: ایک قسم کا پرندہ۔ چڑیوں کے بچے۔ ج نَقَارًا۔

المنقور۔ نقار کی بیماری والا۔ مؤنث منقورۃ۔

نقرس (ان) نقس۔ الثاقوس بالخصبة: لکڑی سے ناقوس بجانا۔ الثاقوس: ناقوس بجانا۔ المزارۃ: جناح کرنا۔

نقرس (ان) نقس۔ الشراب: کھانا ہونا۔

بین القوم: لہو والا۔

نقرس (اس) نقس۔ عیب لگانا۔ خسف کرنا۔ نقس نفسہ: حمل آنا۔

نقرس فلانًا: لقب دینا۔ اللقوۃ: روایت میں روشنی انا۔ نقسہم بتاقوس: ناقوس بجانا کر لوگوں کو بلانا۔

نقرسہ: عیب لگانا۔ کہا جاتا ہے "بیتہما مناقسۃ و مناقسۃ" ان کے درمیان منافرت اور عیب گیری ہے۔

انقرس۔ ناقوس بجانا۔

النقرس فا۔ کھانا۔ کہا جاتا ہے "لبن نالیش او شراب نالیش" کھانا دودھ یا کھنی شراب۔

النقرس۔ ایک قسم کا ناقوس۔ کھلی۔ ج نقس و ج نقرس: لوگوں کی عیب گیری کرنے والا اور لقب رکھنے والا مرد۔

النقرس۔ روشنی۔ ج ناقس والنقرس۔

الانقرس۔ ہاندی بچہ۔ کھلی والا۔

النقرس۔ ایک قسم کی ہانات۔

الثاقوس۔ لکڑی یا لوسہ کا بڑا ٹکڑا جس کو

چھوٹے ٹکڑے سے بجاتے ہیں اور کبھی گھنڈے کے لئے ناقوس کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔
النِّقَاصَةُ: لقب ریتا۔

نَقَشَ (ن) نَقَشًا الشَّيْءُ: مختلف رنگوں سے نقش و نگار کرنا اور مزین کرنا — العَدْلُقُ: کھجور کے خوشہ کو پکانے کیلئے کانٹوں سے مارنا — الشُّوْكَةُ مِنَ الرَّجْلِ: پیر سے کاٹا کانا — مَرَبَضُ الْعَتَمِ: بگڑی کے بازو کو ٹکڑے وغیرہ سے پاک صاف کرنا — عَنِ الشَّيْءِ: نہایت وضاحت کرنا — فَصَّ الْعَتَامَ: انگریزی کے گھیند پر نقش کرنا۔ الشُّعْرُ بِالْمِنْقَاشِ: بال کو موچنے سے اٹھینا۔ الرَّحَى: بچل کے دندلے بنانا — الْجَارِيَةُ: جماع کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "عنا نَقَشَ مِنْهُ شَيْئًا" اس نے اس میں سے کچھ نہیں پایا۔

نَقَشَ الشَّيْءَ: مختلف رنگوں سے نقش و نگار کرنا۔

نَاقِصَةُ الْحِسَابِ وَهِيَ الْحِسَابُ: حساب کی تکمیل حتیٰ سے لینا۔ نَاقِشٌ فَلَانًا: بھگڑ کرنا۔ اَنْقَشَ عَلَيَّ غَرِيمِي: مقروض سے پورا وصول کر لیا۔ نقش کے کھانے پر مدامت کرنا۔ (دیکھئے لفظ النقش)

نَتَقَشُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ فَلَانٍ: سارا وصول کر لیتا کچھ نہ چھوڑتا۔

اِنْتَقَشَ الشُّوْكَةُ: کانا پیر سے نکالنا۔ اور کبھی اِنْبِقَاشًا تو یہ کیلئے بطور استعارہ کے مستعمل ہوتا ہے — الشَّيْءُ: نکالنا — مِنْ زَيْدٍ جَمِيعَ حَقِّهِ: سارا حق وصول کر لیتا کچھ نہ چھوڑتا۔ اِنْتَقَشَ فَلَانًا: پسند کرنا۔ تم کہتے ہو "اِنْتَقَشْتُكَ لِكُذِّ" میں نے تم کو نکالنا چیر کیلئے منتخب کیا و اِنْتَقَشَ لِنَفْسِهِ عَادِمًا اَوْ غَيْرِهِ اس نے اپنے لئے خادم وغیرہ بنایا۔ اِنْتَقَشَ فَلَانًا: گھیند پر کندہ کرنے کا حکم دینا — عَلَيَّ فَعِيْبُهُ كَذَا: نقش کے جانے کا حکم دینا۔

النِّقَاشَةُ: نقش و نگار کا پیشہ۔
النَّقْشُ: مہ۔ زمین میں نشان۔ نقش و نگار از جسم تصویر و نقل پر مہ۔ ح نقوش۔ النقش: خشک کھجور جس کو توشہ دان میں رکھ کر پانی ڈالیں۔ کنا

جاتا ہے "ذَامَ عَلَيَّ اَكْثَلَ النَّقْشِ" اس نے نقش کے کھانے پر مدامت کی۔

النَّقَاشُ: نقش و نگار کرنے والا۔
النَّقِيشُ: برتن میں متفرق سامان۔ نظیر۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُ نَقِيشٌ" اس کی کوئی نظیر نہیں۔

الْمِنْقَشُ وَالْمِنْقَاشُ: نقش و نگار کرنے کا آلہ۔ موچنا۔ ح مناقش۔ و مناقيش۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَخْرَجْتُ حَقِّي بِالْمِنْقَاشِ" مجھے اپنے حق کے وصول میں تھکن لانا ہوئی۔

الْمِنْقُوشُ: مہ۔ دستار۔ کچی کھجور جس کو پکنے کے لئے کانا ہار میں۔

الْمَنَجِجَةُ الْمُنْقَشَةُ وَالْمُنْقُوشَةُ: زخم جس سے ہڈیاں نکال جائیں۔

نَقَصَ (ن) نَقْصًا وَتَنْقِصًا وَنَقْصَانًا الشَّيْءُ: کم ہونا۔ گھٹنا۔ نَقَصْتُ الشَّيْءَ: گھٹانا۔ نَقَصْتُ زَيْدًا حَقَّهُ: حق کم کر دینا گھٹانا۔

نَقَصَ (ك) نَقْصًا الْمَاءَ: پانی بیٹھا و خوشگوار ہونا۔

نَقَصَ الشَّيْءَ وَانْقَصَهُ: گھٹانا۔ اِنْتَقَصَ الشَّيْءَ: گھٹانا۔ الرَّجُلُ: عیب ہوئی کرنا۔ اِنْتَقَصْتُهُ حَقَّهُ: حق کم کرنا۔

تَنْقَصُ فَلَانًا: ہمت کرنا۔ نقص کی نسبت کرنا — الشَّيْءُ: تھوڑا تھوڑا لینا۔

تَنْقِصُ الشَّيْءَ: آہستہ آہستہ گھٹانا۔ اِسْتَنْقِصُ الشَّيْءَ: قیمت گھٹانے کیلئے کہنا۔ تھوڑا پانا — الرَّجُلُ: نقصان کی نسبت کرنا۔

النَّاقِصُ: فا۔ درہم ناقص۔ کم وزن کا درہم ج ناقص۔

النَّقْصُ: مہ۔ یہ نقصان کے مانند ہے مگر فرق یہ ہے کہ نقصان کا استعمال دین اور عمل میں نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے "ذَخَلَ عَلَيْهِ نَقْصٌ لِي ذِيْبِهِ وَعَلَيْهِ اَوْ" ذَخَلَ عَلَيْهِ نَقْصَانٌ لِي ذِيْبِهِ وَحَقْلِي" نہیں کہا جاتا۔

النَّقْصَانُ: مہ۔ گھٹی۔ کئی۔ کہا جاتا ہے "نَقْصَانُهُ كَذَا وَكَذَا" اس کا نقصان اتنا اور اتنا ہے۔

النَّقِيشُ: خوشگوار بیٹھاپانی۔ ہر محمد و خوشبودار

النَّقِيشُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النَّقِيشُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النَّقِيشُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النَّقِيشَةُ: عیب گیری۔ بڑی خصلت ج ناقص۔

النَّقِيشَةُ: مہ۔ نقصان۔ ح مناقص۔

نَقَضَ (ن) نَقْضًا الْبِنَاءَ: عمارت ڈھانا — الْعَظْمُ: ہڈی توڑنا — الْحَبْلُ: رستی کھولنا — الْعَهْدُ اَوْ الْأَمْرُ: مضبوطی کے بعد خراب کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "نَقَضَ فَلَانٌ وِتْرَهُ" یعنی فلاں نے اپنا بدلہ لیا۔

نَقَضَ (ن ح) نَقْضًا الْمَفْضُلُ اَوْ الْاَدِيْمُ وَنَحْوَهُمَا: جوڑا چھڑے کا تڑ تڑ کرنا۔

نَاقِضٌ مُتَاقِضَةٌ وَنَاقِضًا قَوْلُهُ الْقَائِي قَوْلُهُ الْاَوَّلِ: مخالف ہونا۔

اِنْتَقَضَتِ الْعُقَابُ: عتاب کا آواز نکالنا۔ اِنْتَقَضَ اَصَابِعُهُ: انگلیاں جھکانا — الْكُفَاةُ وَعَنِ الْكُفَاةِ: سانپ کی چھتری کو زمین سے نکالنا۔ بِالْمَعْرِ: بگڑی کو بلانا — الْحَبْلُ الظَّهْرُ: بوجھل کرنا — وَنَقَضَ الْكَيْمَ: سانپ کی چھتری کا زمین کو چھاڑنا۔ وَنَقَضَ الْاَرْضَ: مٹی علیحدہ کر دینا۔

تَنْقِصُ الدَّمِ: خون ٹیکنا — الْجُرْحُ: زخم سے خون برسا — الْحَبْلُ: رستی کا کھل جانا — الْبَيْتُ: تڑکانا۔ تَنْقِصَتْ عِظَامُهُ: ہڈیوں سے آواز نکالنا — الْاَرْضُ عَنِ الْكُفَاةِ: زمین کا چھٹنا۔

تَنْقِصُ الْبِنَاءِ اَوْ الْحَبْلُ: عمارت کا تڑکانا یا رستی کا کھلنا — الْقَوْلَانُ: ایک دوسرے کے مخالف ہونا۔ تَنْقِصُ الْبَيْعِ: بیع کو باہم توڑنا۔

اِنْتَقَضَ الْبِنَاءُ: عمارت کا تڑکانا۔ الْحَبْلُ: رستی کھلنا — الْجُرْحُ بَعْدَ تَرِيْبِهِ: زخم کا خراب ہونا — الْأَمْرُ بَعْدَ الْجَنَابَةِ: فاسد ہونا۔ بگڑنا۔ اِنْتَقِصَتِ الظَّهْرَةُ: طہارت کا زائل ہونا۔ کہا جاتا ہے "اِنْتَقِصَ عَلَيْهِ الْبَلَدُ" یعنی شہرواں نے بغاوت کی۔

النَّقَاصَةُ: عی ہوئی رستی کا جو حصہ کھول دیا جائے۔

النَّقِصُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النَّقِصُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النَّقِصُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النَّقِصُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النَّقِصُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النَّقِصُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النَّقِصُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النَّقِصُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النَّقِصُ: مہ۔ منافسین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو سناکن کرنا۔

النقص۔ عمارت۔ طبع۔ کثرت سفر سے لاغر شدہ۔ خیمہ یا کھیل جو ادمیر کر دوبارہ کاتا جائے۔ زمین کی باریک تہ جو سانپ کی چمتری سے پھٹ جائے۔ ج نقصان و نقوض۔
النقص۔ عمارت کا جو حصہ ٹوٹ جائے۔ ج نقصان و نقوض۔
النقص۔ کشتی کا ایک تہج۔
النقص۔ خیمہ یا کھیل جو ادمیر کر دوبارہ کاتا جائے۔

النقصۃ۔ نقص کا اسم مرۃ۔
النقصۃ۔ نقص کا اسم نوع۔ کثرت سفر سے لاغر شدہ۔ کہا جاتا ہے ناقصۃ نقصۃ۔ ج نقصان۔

التقصین۔ مخالف۔ کہا جاتا ہے "فلان هو تقصینک" فلاں تمہارا مخالف ہے۔ مؤنث تقصینۃ التقصین من الأدم والرحل والوتر والأصابع والأضلاع والمفاصل و نحوها۔ برعکس۔ مخالف۔ آواز التقصین:

چوزے، بھجو، مینڈک، عقاب، شتر مرغ کی آواز۔ تقصین الشقیف، چمست کی چرچاہٹ۔ تقصین کل شئی، ہر چیز کا رفع۔ مثلاً جب ہم کہیں کہ "کل إنسان حیوان بالصرورة" تو اس کی تقصین اِنَّہ لیس تکذلبک ہوگی۔

التقصینان۔ دو چیزیں جن کا اجتماع ایک ہی جہت سے ممکن ہو جیسے ایجاب و سلب۔

التقصینۃ۔ پہاڑی راستہ۔ اسم ہے مناقصۃ کا والتقصینۃ فی الشجر، لطم جو کسی لطم کے جواب میں ہو۔ کہا جاتا ہے "ہذہ القصینۃ تقصینۃ قصینۃ فلان" یہ قصیدہ فلاں کے قصیدہ کے جواب میں ہے اور اسی سے ہے نقاض جبریر و فززدق۔

التناقض۔ مع۔ باہم مخالف ہونا۔ کہا جاتا ہے "فی کتابہ تناقض" یعنی اس کے کام میں مخالف ہے۔ بعض کا بعض سے ابطال ہو جاتا ہے۔

نقط (ان) نقطا الحروف، حرف پر نطق لگانا۔ صفت فاعلی نقاط اور صفت مفعولی منقوڑ (ان) ونقط، بہ الزمان، زمانہ کا موافق ہونا۔ ونقط الحروف، حرف پر نطق لگانا۔ نقط لؤنہ بالمداد او الزعفران، کپڑے کو روشنائی یا

زعفران سے پونٹی دار بنانا۔
نقط المكان، گھاس کے متفرق قطعے ہونا۔
فلان الحین، آہستہ آہستہ لینا۔

تنقطت الحین، آہستہ آہستہ میں نے روٹی کھائی۔

النقاط۔ غلام کا غلام۔
النقطۃ۔ نقط کا اسم مرۃ۔

النقطۃ۔ نقطہ۔ فل اسباب۔ ج نقاط ونقط۔ کہا جاتا ہے "نقاط او نقط من الکلام" گھاس کے متفرق ٹکڑے۔ "وما اختلقتوا فی نقطۃ" یعنی انہوں نے پوری طرح موافقت کی۔ ذرا بھی مخالفت نہ کی۔ نقطۃ الدائرة، دائرہ کا مرکز۔

التقط۔ غلام کا غلام۔

المنقوڑ۔ مع۔ المنقوڑ من الشجر، شجر جس کے تمام حروف نطق والے ہوں۔ کتاب منقوڑ، کتاب جس میں اعراب لگے ہوئے ہوں۔

نقع (ک) نقعا۔ آواز بلند کرنا۔

الحین، گریبان چھڑانا۔ فلاناً، قتل کرنا۔
رقیۃ، تھوک سہ میں جمع کرنا۔ الصوت، زیادہ ہونا۔ فلاناً بالشیم، بہت بڑی گال دینا۔

بالشراب، شخاپانا۔ الدواء وغیرہ فی الماء، بھگونا۔ الزجل، ممانوں کیلئے جانور ذبح کرنا۔

نقع (ف) نقوعاً الصوت، آواز بلند ہونا۔
الصراخ بصوتہ، لگاتار چلانا۔ لہ الشتر، بیوشہ کرنا۔ من الماء وہ، سیراب ہونا۔ السم، فی آتیاب الحین، زہر کا سانپ کے دانتوں میں جمع ہونا۔ کہا جاتا ہے "مناقضت بعبیرہ" یعنی میں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔

نقع (ف) نقعا ونقوعاً الماء فی بطن الوادی، پانی کا وادی میں جمع ہونا اور دریا تک ٹھہرنا۔
الماء العطش، پانی کا پیاس کو بھگانا۔

انقع الدواء وغیرہ فی الماء، بھگونا۔
الصراخ بصوتہ، لگاتار چلانا۔ الماء فلاناً، سیراب کرنا۔ الماء، زرد ہونا اور رنگ بدل جانا۔
الزجل، ممانی کیلئے جانور ذبح کرنا۔

الحین السم، فی آتیابھا، سانپ کا زہر کھانے

دانتوں میں جمع کرنا۔ فلان شترًا، دل میں چھپانا۔ المیت، میت کو دفن کرنا۔
العطش، پیاس کا بھگانا۔

انتقع التقیعة، ممانی کے لئے جانور ذبح کرنا۔
القوم تقیعة، تقسیم سے پہلے مال تقسیم کرنے کی جانور کو ذبح کرنا۔

انتقع لؤنہ، غم یا گھبراہٹ کی وجہ سے چہرہ کا رنگ بدل جانا۔
استنقع الصوت، آواز بلند ہونا۔ الماء، پانی کا زرد اور خنیر ہونا۔ فلان فی القہر، خیر میں داخل ہونا اور محض حاصل کرنے کیلئے دیر تک ٹھہرنا۔ الماء فی الغدیر، پانی کا تالاب میں جمع ہونا۔

استنقع لؤنہ، رنگ بدل جانا۔ الشئی فی الماء، بھگونا جانا۔
التاقع، فاسم تاقع، زہر قاتل۔ ذوات تاقع، مفید دو۔ دم تاقع، تازہ خون۔

التقع، مع۔ جمع شدہ پانی۔ ج انقع، التقع غبار۔ ج نقاع ونقوع، والتقع، مکہ معظمہ کے قریب ایک جگہ کا نام۔ سنگستانی زمین جس میں پانی جمع ہو۔ نرم و ہموار زمین۔ پانی رکنے کی جگہ ج نقاع وانقع، نقع البئر، پانی جو کنوئیں میں جمع ہو۔ کنوئیں کے پانی کی زیادتی۔

التقاع، خشک انگور وغیرہ بھگونے کا برتن۔

التقاعہ، پانی وغیرہ جس میں کوئی چیز بھگوئی جائے۔

التقاع، نرم و ہموار زمین۔ سنگستانی زمین جس میں پانی جمع ہو۔ غبار۔ آواز۔ ج نقاع۔

التقاع، اسم مبالغہ۔ ایسے فضائل کا دعویٰ کرنے والا جو اس کے اندر نہ ہوں۔

التقوع، رنگ کہ جس میں خوشبو بڑی ہوتی ہو۔ بیضا ٹھنڈا پانی۔ وہ چیز جو پانی میں بھگوئی جائے۔ کہا جاتا ہے "فلان نقوع اذن" ظاہر ہر چیز تسلیم کر لیتا ہے۔

التقیع، خشک انگور کی شراب جو پانی میں بھگو کر پائی جائے۔ ہر وہ چیز جس میں خشک بھجور بھگوئی جائے۔ ٹھنڈا بیضا پانی۔ بہت پانی والا کنواں۔ ج اتقعة، حج۔ عرد جس کی ماں غیر قوم کی ہو۔

ذَوَاتِ قَبِيحٍ: مفید ووا۔

التَّقِيحَةُ: کمانا جو سزے واپس آنے والے کیلئے تیار کیا جائے۔ جانور جو سمائی کے لیے ذبح کیا جائے۔ ج نَقَائِعِ اور اسی سے ہے "النَّاسُ نَقَائِعِ الْمَوْتِ" یعنی موت نے لوگوں کو نزع کر دیا۔

الْأَنْفَعُ: اسم تفصیل۔ زیادہ پاس بجھانے والا اور اسی سے مثال ہے "الزَّيْتُ أَنْفَعُ" یعنی تموزا تموزا کر کے پینا پیاس کیلئے زیادہ بجھانے والا ہوتا ہے۔ جلد بازی کے ترک کی مثال دی جاتی ہے۔

الْأَنْفُوْعَةُ: ہر ایسی جگہ جہاں پانی بہ کر آئے "أَنْفُوْعَةُ الْمِيْرَابِ" پر نالے میں پانی بہنے کی جگہ۔

الْمُسْتَنْقَعُ: پانی جمع ہونے کی جگہ۔ تالاب کی وہ جگہ جہاں پانی میں گھس کر آدمی غسل کرے۔

الْمُنْقَعُ: سمندر۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ پانی سے سیرابی۔ ج متناقع۔

الْمُنْقَعُ: برتن۔ جس میں کوئی چیز بھگوئی جائے۔

الْمُنْقَعُ: منگ۔ پتھر کا چھوٹا برتن۔ ہر وہ چیز جو بھگوئی جائے۔ خالص دودھ کہ جس کو ٹھنڈا کریں

اور رکھیں۔ سَمٌ مُنْقَعٌ: زہر جس میں اور زہر ملا کر قوت بڑھادی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ مُنْقَعٌ" فلاں کی رائے سے تسلی ہوتی ہے۔

الْمُنْقَعُ: چھوٹی بانڈی جس میں دودھ، گھوڑے ڈالتے ہیں اور پتھر کو کھلاتے ہیں۔

الْمُنْقَعَةُ: خشک انگور وغیرہ بھگونے کا برتن اور

وَالْمُنْقَعَةُ: یعنی مُنْقَعٌ۔

نَقْفٌ (ن) نَقْفًا هَامَةً الزَّجْلُ: کھوپڑی توڑ دینا — فُلَانًا: جگہ ضرب مارنا — الْفَرْخُ الْبَيْضَةُ: پرندہ کے بچے کا انڈے میں سوراخ کر کے نکالنا۔ الزُّمَانَةُ: انار پھیل کر دانے نکالنا۔

الْحَنْظَلُ وَتَحْوَةُ: اندرائن توڑ کر دانہ نکالنا۔ صفت فاعل ناقص اور صفت مضمون تَقْيِيفٌ وَ مَنْقُوفٌ — الشَّرَابُ: صاف کرنا اور بقول بعض ملانا — عَنِ الشَّيْءِ: کھو کر یہ کرنا۔ نَقْفَةُ بَطْفَرِهِ: ناخن سے مارنا۔

نَاقَلْنَا قَهْقَرًا نَقْفًا سَرَّزًا كَوَارِمًا: نَقْفٌ (ن) نَقْفًا هَامَةً الزَّجْلُ: کھوپڑی توڑ دینا — فُلَانًا: جگہ ضرب مارنا — الْفَرْخُ الْبَيْضَةُ: پرندہ کے بچے کا انڈے میں سوراخ کر کے نکالنا۔ الزُّمَانَةُ: انار پھیل کر دانے نکالنا۔

أَنْفَقَ الْجَزَاءُ الْوَادِي: اندرون سے بھر دینا — فُلَانًا الْعَظْمَ: ہڈی سے مغز نکالنے کیلئے دینا) — وَتَنْقَفُ الْحَنْظَلُ: دانہ نکالنے کیلئے اندرائن توڑنا۔

إِنْتَقَفَ الشَّيْءُ: نکالنا — الْحَنْظَلُ: دانہ نکالنے کے لیے اندرائن توڑنا۔

زَجَلٌ نَقْفٌ: دور اندیش مرد۔ کہا جاتا ہے "جَاءَنَا فِي نَقْفٍ وَاحِدٍ" وہ دونوں برابر برابر آئے کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اور نقاف اصل میں ان دو بچوں کو کہتے ہیں جو ایک ہی انڈے سے نکلیں۔ اور کہا جاتا ہے "الْيَوْمَ قِحَاقٌ وَعَدَا نَقْفٌ" آج شراب نوشی کا دن ہے اور کل حاملہ ہے۔

النِّقْفُ وَالنَّقْفُ: بچہ جس وقت کہ انڈے سے نکلے۔

النَّقْفَةُ: پہاڑی چوٹی یا ٹیلہ پر چھوٹا سا گڑھا۔

النَّقْفُ: اصرار کے ساتھ سوال کرنے والا۔

سوال کرنے میں حریص۔ کلمی کا بہت چھپیلے والا۔

زَجَلٌ نَقْفٌ: غرور دور اندیش۔

النَّقَافَةُ: سوال کرنے میں حریص۔

النَّقِيْفُ: تہ جس کو دیکھنے کے لیے کھالیا ہو ج

نُقْفٌ: پرندے کی چونچ۔ ایک قسم کی کوڑی۔

الْمُنْقُوفُ: نفع۔ زرد زرد ڈیلا پتلا۔ کزور جڈج

مَنْقُوفٌ: دیکھ خور وہ تہ۔ عَيْنَانِ مَنْقُوفَتَانِ: سرخ آنکھیں۔

نَقْلٌ (ن) نَقْلًا الشَّيْءُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا — حُفَّ الْبَيْعِيُّرُ او النَّوْبُ او النَّعْلُ: بیوند لگانا اور درست کرنا — الْكَلَامُ عَنِ قَائِلِهِ: روایت کرنا — الْكِتَابُ: نقل کرنا

— الْكِتَابُ إِلَى لُغَةٍ كَذَا: ترجمہ کرنا۔

نَقَلَ الشَّيْءَ: زیادہ منتقل کرنا — الْحُفُّ او النَّوْبُ: بیوند لگانا اور درست کرنا۔ تصدیق مبالغہ

کیلئے ہے۔ نَقَلَتِ الشَّجَّةُ الْعَظْمَ: زخم کا ہڈی کو توڑنا — فُلَانٌ الضَّمِيْفُ: ممان کو نقل کھانا

(دیکھئے نقل)

نَاقَلَ الْفَرَسُ: جلدی جلدی ٹانگیں اٹھانا۔

دوڑنے میں پتھروں سے بچنا۔ نَاقَلْتُهُ الْحَدِيْثَ: میں نے اس سے اور اس نے مجھ سے روایت کی۔ نَاقَلْتُهُ الْأَقْدَاحَ: ایک دوسرے سے لینا دینا۔ نَاقَلْتُ فُلَانًا: پینے میں کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ نَاقَلَ الشَّاعِرُ الشَّاعِرَ: ایک شاعر کا دوسرے شاعر سے مقابلہ کرنا۔

انْقَلَّ الْحُفُّ او النَّعْلُ: درست کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْقَلَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ: منتقل ہونا۔ زیادہ منتقل ہونا — الزَّجْلُ: نقل کھانا۔ (دیکھئے نقل)

تَنَقَّلُوا: الْحَدِيْثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

قُلْ وَخُزِيرِي كَرْنَا — فَلَا تَأْخُذْهُ: کسی کا حق پورا کرنا۔

إِنْتَكَا إِنْتِكَاءَ حَقَّةً مِنْ فَلَانٍ: حق وصول کرنا۔ قبضہ کرنا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ زَكَاةٌ نَكَاةٌ“ وہ ماوجب کو جلدی ادا کرتا ہے یا نہیں۔

نَكَبَ (ن) نَكَبًا وَنَكُوبًا عَنَّا: تجاوز کرنا۔

ہٹ جانا (— نَكَبًا) الشَّيْءُ وَبِهِ: ڈال دینا۔

الإِنَاءُ: برتن سے سب کچھ ہمارا — الْبِكْنَانَةُ: ترش سے سب کچھ نکمیر دینا۔ نَكَبْتِ

الْحِجَابَةَ وَجَلَّةً: پتھر کا پیر کو زخمی کرنا (—

نَكَبْنَا وَنَكَبْنَا) الدَّهْرُ فَلَانًا: معیبت پہنچانا۔

نَكَبْتِ نَكُوبًا التَّرِيحَ هُوَ كَابَهُ رِخَ جَلَا۔

نَكَبَ (ن) نَكَبًا وَنَكُوبًا فَلَانٌ عَنِ قَوْمِهِ: مددگار قابل بھروسہ ہونا۔

نَكَبَ (س) نَكَبًا عَنِ الظَّرِيقِ: راستہ سے

ہٹ جانا — التَّبَعِيْتُ: نكب بیماری والا ہونا

(دیکھئے بیماری نكب) — التَّرْجُلُ: بیمار کندھے

والا ہونا۔

نَكَبَ: معیبت زدہ ہونا۔

نَكَبَ عَنِ الظَّرِيقِ: راستہ سے ہٹ جانا

الک ہونا — الشَّيْءُ: الک کرنا۔ اور کہا جاتا ہے

”نَكَبْتِ الظَّرِيقَ وَنَكَبَ بِهِ الظَّرِيقَ وَنَكَبَ بِهِ

عَنِ الظَّرِيقِ“ یعنی اس نے اسے راحہ سے ہٹا

دیا۔

نَاكَبَهُ: موڑھے کے مقابل ہونا۔

نَكَبْتُ عَنَّا: الک ہونا۔ پچھا۔ گوشہ گیر ہونا۔

کندھا پھیر کر دوسرے کی جانب متوجہ ہونا —

عَلَى الشَّيْءِ: ٹیک لگانا — كَنَانَتَهُ أَوْ قَوْمَهُ

ترش یا کمان کو کندھے پر ڈالنا اور کہا جاتا ہے

”فَتَكَبَّ عَنْ وَجْهِهِ“ میرے سامنے سے ہٹ

جاؤ۔

إِنْتَكَبَ التَّرْجُلُ كَنَانَتَهُ أَوْ قَوْمَهُ: ترش یا

کمان کو کندھے پر ڈالنا۔

التَّكَبُّ: مع۔ معیبت۔ ج نَكُوبُ۔

التَّكَبُّ: وہ شخص جس کا پاؤں پتھر گلتے سے

زخمی ہو۔

التَّكَبُّ: مع۔ کسی چیز میں توڑی سی کجی۔ ایک

بیماری جو اونٹوں کے موڑھے میں ہوتی ہے جس

سے وہ نکلنا ہو جاتا ہے اور کچھ ٹیڑھا چلنے لگتا ہے۔

الْأَنْكَبُ: جس کے پاس کمان نہ ہو۔ نكب کی

بیماری والا اونٹ۔ جس کا ایک موڑھا دوسرے

سے بلند ہو۔ مرد ستم گار۔ بجا کار۔ کہا جاتا ہے

”زَجُلٌ أَنْكَبَ عَنِ الْحَقِّ وَنَاكَبَ عَنَّا“ حق

سے اعراض کرنے والا مرد۔

التَّكْبَاءُ: الْأَنْكَبُ كَالْمَوْتِ: ریح نكباء:

خلاف رخ چلنے والی یا دو ہواؤں کے درمیان چلنے

والی ہوا۔ ج نَكَبْتُ وَنَكَبْنَا وَاتَّكَبْتُ رِيحًا جَارِ

ہیں۔ ۱- الْأَزْبُ: صبا اور جنوب کے درمیان۔ ۲-

الصَّايَةُ: صبا اور شمال کے درمیان اور اس کو

نَكْبِيَاءُ بھی کہتے ہیں اور یہ تغیر تعظیم کیلئے ہے

اس لیے کہ عرب اس کو بہت لعنہ فرماتے تھے۔ ۳-

الجَوْبِيَاءُ شمال اور دُور کے درمیان۔ اور

الهِيفُ جنوب اور دُور کے درمیان۔

التَّكْبَةُ: نكب کا اسم مرؤ۔ معیبت۔ ج

نكبات۔

التَّكْبَةُ: غلہ کی غیر معین مقدار۔ ج نكب۔

التَّكْبِيْبُ: کھر کا گردا گرد۔

المُنْكَابُ: مرد ستم گار و بجا کار۔ کہا جاتا ہے

زَجُلٌ وَنَكَابٌ عَنِ الْحَقِّ حَقٌّ سَ رُوْغْرَادِي

کرنے والا مرد۔

المُنْكَبُ: موڑھا۔ ج مَنَابِكُ۔ کہا جاتا ہے

”تَشَابَهَتْ مِنْهُمُ الْمَنَابِكُ وَالزُّؤُوسُ“ وہ

سب مساوی ہیں کوئی ان میں بڑھا ہوا نہیں اور کہا

جاتا ہے ”هَذَا مَنْكَبِيَّةٌ لِكَيْدٍ“ وہ فلاں چیز سے خوش

ہوا۔ ”وَفُلَانٌ مَعْنَى عَلِيٍّ خَلِدٍ مَنْكَبٌ“ فلاں مجھ

سے کنارہ کش ہے۔ المُنْكَبُ: پہلو۔ گوشہ۔ کہا

جاتا ہے ”يَسْرُنَالِي مَنْكَبِي مِنْ الْأَرْضِ أَوْ

الْحَبْلِ“ ہم زمین یا پہاڑ کے پہلو میں چلے۔

المُنْكَبُ مِنَ الْقَوْمِ: چودھری مددگار — مِنَ

الْأَرْضِ: راستہ۔ بلند جگہ۔ کہا جاتا ہے ”إِمَشُوا

فِي مَنَابِكِهَا“ اس کی بلند جگہوں میں چلو۔ مَنْكَبُ

الْجُوزَا وَ مَنْكَبُ ذِي الْعُنَانِ وَ مَنْكَبُ

الْقَوْمِ: ستاروں کے نام۔

المَنَابِكُ: مَنْكَبُ کی جمع — فِي رِيضِ

الْقَالِيَةِ: پرندہ کے بڑے پرؤں کے بعد چار پر (جمع

ہے اس کا واحد نہیں)

الْمُنْكُوبُ: مع۔ معیبت زدہ (— التَّنْكِيْبُ)

جس کا پاؤں پتھر گلتے سے زخمی ہو۔

نَكَبْتُ (ن) نَكَبًا الْأَرْضَ بِقَضِيْبٍ أَوْ

بِأَصْبَعِهِ: سوچ کی حالت میں چمڑی یا انگلی سے

زمین کو کھینچنا — النَّاشُ بِالْحَصَى: زمین پر

نکری پھینکنا — الْفَرَسُ: گھوڑے کا اچھلنا۔ کہا

جاتا ہے ”مَرَّ الْفَرَسُ بِنَكَبٍ“ گھوڑا اچھلتا ہوا

گزرنا — الْعَظْمُ: ہڈی سے گودا نکالنا —

فَلَانًا: سر کے بل گرنا۔ اور اسی سے ہے

”لَا تَنْكَبُ بِكَ الْأَرْضُ“ میں تجھ کو زمین پر سر

کے بل گر دوں گا — كِنَانَتَهُ: ترش سے بھیر

دینا۔

نَكَبْتُ التَّرْجُلَ: پکنا شروع ہونا — فِي

قَوْلِهِ: نکتہ چینی کرنا۔

إِنْتَكَبْتُ: سر کے بل گرنا۔ کہا جاتا ہے ”نَكَبْتُ

فَأَنْتَكَبْتُ“ اس نے اسے سر کے بل گرایا دہ کر

گیا۔

النُّكْبَةُ: داغ۔ زمین میں کھینچنے کا اثر۔ ج

نَكَبْتُ وَ نِكَاةٌ: النُّكْبَةُ: آئینہ یا تلواریں

دوبہ، مشکل مسئلہ جو دقت نظر سے حاصل ہو۔

لَطِيفٌ۔

النَّكَاةُ: بڑا نکتہ چینی۔ بڑا آہو گیر۔ وہ شخص جو

اپنے کلام میں لطائف بیان کرے۔

النَّكَبِيْتُ: مطعون۔ وہ شخص جسے طعن تفتیح کیا

گیا ہو۔

الْمُنْكُوبُ: مع۔ سر کے بل گرا ہوا۔

نَكَبْتُ (ن) ض) نَكَبْنَا الْعَهْدَ وَ التَّبِيْعَ: عہد کو

توڑنا۔ بیچ کو فسخ کرنا — الْحَبْلُ أَوْ الْكِبَاءُ:

رشتی یا کھل اور میزنا — الْمِسْوَاكُ: مسواک کی

کوچی بناؤ۔

تَنَافَسُوا: غُھُوْذَهُمْ: آپس میں معاہدہ توڑ

دینا۔

إِنْتَكَبْتُ: الْحَبْلُ وَ غَيْرُهُ: رشتی وغیرہ کو

اُذْمِرْنَا جانا — الْمِسْوَاكُ: کوچی بناؤ — فَلَانٌ

مِنْ حَاجَةِ إِلَى الْخُرْحَى: ایک کام سے ہٹ کر

دوسرے میں لگنا۔

النَّكَاةُ: پھینچاؤ جو اونٹ کے منہ میں نکلتی

ہیں۔

التَّكْضُ - فَابْتِزَّ تَاكِزٌ: کنواں جس کا پانی ختم ہو گیا ہو۔ ج تو اکیز۔
 اليكز: رزبل لوگ۔ ہڈی میں باقی ماندہ مغز)۔
 - وَالْمُنْكِزُ خَالٍ: کہا جاتا ہے ”جَاءَ نِكْزًا وَ مُنْكِزًا“ یعنی وہ خالی خولی آیا۔
 بِنِزْوَانِكِزٍ: کہانی والا کنواں۔
 التَّكْزَانُ: اسم مبالغہ۔ ایک بہت ہی غیبی قسم کا سانپ جو مرنے سے نہیں لگتا بلکہ ناک سے پھنکار مار کر ہلاک کرتا ہے اور اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کے سر اور دم میں تیز نہیں ہوتی ج نکاکیز و نکازات۔
 اليكز التكويز: کنواں جس کا پانی ختم ہو گیا ہو ج نكز۔ کہا جاتا ہے فَلَانَ يَمْتَكِزُ مِنَ الْعَيْشِ: فلاں تک زندگی میں ہے۔
 نَكْسَةُ (ن) نَكْسَا: اونڈھا کرنا۔ نَكْسَ وَاسَةً: رات سے سر جھکانا - الظَّعَامُ وَ غَيْرُهُ ذَاءَةُ الْعَرِيضِ: کھانے وغیرہ کا مریض کے مرض کو لوٹا دینا - اليحضاب: بار بار لگانا۔ کہا جاتا ہے ”نَكْسْتُ فَلَانَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ“ میں نے فلاں کو اس معاملہ میں پھر بھڑایا۔
 نَكِسَ الْعَرِيضُ: دوبارہ بیمار ہونا - الرَّجُلُ: ضعیف و عاجز ہونا - الرَّجُلُ عَنِ نَظَرِ أَيِّ: اپنے ہم جویوں سے کوتاہی کرنا۔
 نَكْسَةُ نَكْسِيْنَا اُونْدھا کرنا۔ نَكْسَ الْفَرَسُ: گھوڑوں سے نڈل سکنا۔ صفت۔ مُنْكِسٌ: تَنَكَّسَ: اونڈھا ہونا۔
 اِنْتَكَسَ: سر کے بل گرانا - الْعَرِيضُ: صحت یابی کے بعد دوبارہ بیمار ہونا۔
 التَّكَاكِسُ: فا۔ سر جھکانے والا مرد ج تو اکیس (شان)
 التَّكْسَا: صحت یابی کے بعد مرض کا عود کرنا۔
 التَّنْكَسُ: صحت یابی کے بعد مریض کا عود کرنا۔
 گرنے کے بعد ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا کہ پہلی دفعہ کے گرنے سے زیادہ زور سے گرا۔ اور کہا جاتا ہے تَعَسَا لِفُلَانٍ وَ نَكْسَا اَوْ وَتَكْسَا۔ کلمات بد دعا ہیں یعنی فلاں کے لیے ہلاکت و سرگمی ہو۔
 اليكس: تیر کہ جس کا سرائوٹ گیا ہو اور اس

کے اوپر کے حصے کو نیچ کر دیا گیا ہو۔ کمان کہ جس میں شاخ کے سرے کو مچلا حصہ بنائیں (اور یہ کمان میں عیب ہے) کمزور و بچ و بے برکت مرد۔ پست قد۔ کرم و سخاوت میں کوتاہی کرنے والا۔ ج اَنكاس۔
 الفئس: بہت بوڑھے لوگ۔ واحد ناكيس۔
 المُنْكَسُ: فا۔ آہستہ چلنے والا گھوڑا جو اپنے سر کو نڈھائے وہ گھوڑا جو گھوڑوں سے نڈل سکے۔
 المُنْكَوَسُ: مفع۔ دوبارہ بیمار ہونے والا۔ مِنَ الْاَوْلَادِ: پیدائش میں جس کے پیر پہلے نکلیں قَوْسٌ مُنْكَوَسَةٌ: کمان کہ جس میں نشی کے سرے کو مچلا حصہ بنائیں۔
 نَكْشُ (ن ض) نَكْشَا الْبَيْتُ: کنوئیں کی کچھڑ تک نکال دینا - الشَّقِيُّ: فنا کرنا - الشَّقِيُّ وَ مِنَ الشَّقِيِّ: فارغ ہو جانا۔
 اِنْتَكَشَ الْبَيْتُ: کنوئیں کو کچھڑ تک صاف کر دینا۔
 المِنْكَشُ: معاملات میں خوب غور کرنے والا۔
 المِنْكَاشُ: کنواں صاف کرنے کا آلہ۔ ج مَنَاشِيش۔
 المُنْكَوُشُ: مفع۔ سَفَطٌ مُنْكَوُشٌ: ڈنڈا جس میں سب کچھ نکال لیا گیا ہو۔
 نَكْضُ (ن ض) نَكْضًا وَ نَكْضًا وَ مَنْكَضًا عَنِ الْأَمْرِ: رُک جانا۔ صفت نَاكِضٌ نَكْضٌ عَلَيَّ عَقَبِيَّةٌ: پہلے کام سے ہٹ جانا (اس کا استعمال عموماً خیر سے رجوع کے موقع پر ہوتا ہے اور شر سے نادر طور پر)
 نَكْضَةٌ: ہٹا دینا۔
 اِنْتَكَضَ الرَّجُلُ: بچھلے پاؤں لوٹنا۔
 المِنْكَضُ: مہ۔ ہٹنے کی جگہ۔
 نَكْظُ (ن) نَكْظًا: بہت بھوکا ہونا۔ فَلَانَ عَنِ حَاجَتِهِ: جلدی کرانا۔
 نَكْظُ (س) نَكْظًا: اپنی ضرورت میں جلدی کرنا - لِلمُخْرُوجِ: نکلنے کے لیے جلدی کرنا۔
 الرَّجُلُ: قریب ہونا۔
 نَكْظَةٌ عَنِ حَاجَتِهِ: جلدی کرنا۔ نَكْظٌ حَاجَتُهُ: درشوار کرنا۔
 اَنكظَةٌ عَنِ حَاجَتِهِ: جلدی کرنا۔
 تَنَكْظُ الرَّجُلُ: سفر میں بد حال ہونا - عَلَيَّ

فُلَانٍ: بھل کرنا - الْأَمْرُ عَلَيْهِ: بوجہ ہونا۔
 التَّكْظُ وَ النِّكْظُ وَ التَّنْكَظَةُ وَ النِّكْظَةُ وَ المُنْكَظَةُ: کوشش۔ سفر کی سخت جلدی۔
 نَكْظَةٌ (ف) نَكْظًا عَنِ الْأَمْرِ: جلدی کرنا یا رد کرنا - فَلَانَ: پاؤں کی پشت سے مارنا - فَلَانَ حَقَّةً: حق روک دینا - نَكْظًا وَ تَنَكَّظًا: المَاشِيَّةُ: موٹی کے تھن پر مار کر دودھ نکالنا - فَلَانَ عَنِ الْحَاجَةِ: سستی کرنا۔
 اور مَا نَكَعُ بَيْنَهُمَا زَالَ افعال ناصہ میں سے ہے ”وَ مَا اَدْرِي أَيُّنَ نَكَعُ“ میں نہیں جانتا کہاں گیا۔
 نَكِعَ (س) نَكَعًا: چھل ہوئی ناک والا ہونا۔
 نَكَعَةٌ عَنِ حَاجَتِهِ: ہٹا دینا۔ جلد بازی سے زندگی کو کھردر کر دینا۔
 اَنكَعَةٌ: رد کرنا۔ دفع کرنا۔ تَهَكَاةٌ عَنِ الْأَمْرِ: جلدی کرنا۔ ہٹانا۔ اَنكَعْتُ فَلَانَ لِبَيْتِهِ: کسی کا مطلوب یا وجود طلب کے فوت ہونا۔ کہا جاتا ہے ”نَكَلْتُمْ فَلَانَ نَكَعَةً“ اس نے گفتگو کر کے اسے خاموش کر دیا ”وَ حَسِبَ فَلَانَ نَكَعَةً“ اس نے یہاں تک کہ اس کی طبیعت کھردر ہو گئی۔
 النكع: مرد سرخ فام۔ چھل ہوئی ناک والا۔ کہا جاتا ہے ”أَحْمَرُ نَكْعٍ“ یعنی بہت سرخی والا۔
 النكع: سرخ رنگ۔ مرد سیاہ۔ سرخی مائل۔
 نَكَعَةٌ لِأَنْفٍ: ناک کا کنارہ۔
 النكعَة: مرد سرخ فام جس کی ناک چھل گئی ہو۔ جو قوف کہ جب کہیں بیٹھ جائے تو ٹپے نہیں۔
 النكعَة: ناک کا کنارہ۔ ایک سرخ رنگ کے درخت کا چھل۔ درخت قنڈا کا گوند۔ مرد کی سرخی ٹپ ہوئی سیاہی۔
 الْأَنْكَعُ: مرد سرخ فام جس کی ناک چھل گئی ہو۔
 المُنْكَعُ: بچھے کو لوٹنے والا۔ أَنْفٌ مُنْكَعٌ: چھٹی ناک۔
 نَكَعُ (ن) نَكَعًا عَنِ كَذَا: ناک بھول چڑھانا۔ بازر ہانا۔ الگ ہونا۔ صفت نَاكِعٌ۔
 فَلَانَ الْعَيْشِ: بارش منقطع ہونا۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا عَيْشٌ لَا يَنْكَعُهُ أَحَدٌ“ یہ ایسی بارش ہے

جس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ اس کی انتہا کہاں ہے "وَعَيْشٌ لَا يَنْكُفُ" منقطع نہ ہونے والی بارش۔ "وَهَذَا عَيْشٌ وَابَوْهُ لَا يَنْكُفُ" یہ لٹکر غیر محدود ہے یا یہ سمندر کا تھلہ ہے۔ نَكَفَ الذَّمْعُ رِخْسَارُونَ پر سے انگلیوں سے پونچھتا۔ نَكَفَ (س) نَكَفًا مِنْهُ اَوْ عَنَهُ : ناک بھوں چڑھانا۔ باز رہنا۔ بیزار ہونا۔ نَكَفْتُ الْيَدُ : درو رسیدہ ہونا — الرَّجُلُ : طلق کے درو کی وجہ سے جڑے کے حدود کا کر جانا۔ نَاكَفَةُ الْكَلَامِ مُنَاكَفَةٌ : ترکی بہ ترکی جواب دیتا۔

أَنْكَفَهُ : ننگ و عار سے پاک کرنا۔ أَنْكَفَ اللَّهُ : تنزیر و تقدیس کرنا۔ نَكَفْتُ الْإِبِيلَ : اونٹ کی ٹھڈی کے نیچے حدود ظاہر ہونا۔

تَنَاكَفُوا الْكَلَامَ : باہم باری باری گفتگو کرنا۔ اِنْتَكَفَ الْعَيْشُ : منقطع کرنا — الْقَوْمُ : ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا — إِلَيْهِ : مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے "اِنْتَكَفْتُ لَهُ لِعَصْرٍ نَفْثَةً" میں اس کے اوپر جھک پڑا اور میں نے اس کو مارا۔ — الْعَجَبِلُ : رشی کا ادھرنا — الرَّجُلُ : بیزار ہونا — الْعَرَفُ عَنْ جَبِينِهِ : پیشانی سے پسینہ پونچھنا۔

اِسْتَنَكَفَ الرَّجُلُ : تلکبر کرنا — مِنْ كَذَا : ننگ و عار یا غرور کی وجہ سے باز رہنا — النكاف: اونٹوں کے طلق کا مرض جس سے فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔

النكف: مہ۔ کان کی لو کے قریب ٹھوڑی کی جڑ میں چھوٹے چھوٹے غرور و احد نَكَفَةٌ۔ رَجُلٌ نَكَفٌ : مرد جس سے ناک بھوں چڑھائی جائے۔

النكفتان والنكفتان: دائرہ۔ پتے کے دائرے بائیں کے جڑے۔ ج نكفتان۔ النكفة: کان کا درو۔

الْمَنَكُوفُ: مفع۔ نكاف زدہ اونٹ (دیکھئے نكاف)

نَكَلَ (ض) نَكَوْلًا وَنَكَيلَ (س) نَكَلًا عَنْ كَذَا اَوْ مِنْ كَذَا : پیچھے ہٹنا اور بزولی کرنا۔ کہا جاتا

ہے "نَكَلَ عَنِ الْعُدُوِّ وَعَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الْجَوَابِ" وہ دشمن سے پیچھے ہٹ گیا اور قسم و جواب سے باز رہا۔

نَكَلَ (ن) نَكَلَةً يُقَالُنَ : عبرتناک سزا دینا۔ نَكَيلَ (س) نَكَالًا : سزا قبول کرنا۔ نَكَلَ بِهِ : مصیبت ڈالنا۔ عبرتناک سزا دینا۔ نَكَلَهُ عَنِ الشُّيْءِ : باز رکھنا۔ یکسو کرنا۔ أَنْكَلَهُ عَنَهُ : ہٹانا۔ دفع کرنا۔ النَّاكَيلُ : فاجر بزدل کمزور۔

النكال: محفوت۔ سزا۔ عبرتناک سزا۔ النكيل: مضبوط بیڑی۔ ج اَنْكَالٌ وَنُكُولٌ : لگام کا لوہا۔ مہار "فَلَانٌ يَنْكُلُ شَيْئًا" فلاں برائی کے لیے قید ہے۔ یعنی دشمنوں کے لیے تازیانہ ہے۔

النكيل: قوی مرد۔ ہسر پر غالب آنے والا۔ مضبوط سدھا ہوا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَنْكُلُ شَيْئًا" فلاں دشمنوں کے لیے تازیانہ ہے۔ النكيلة: عبرتناک سزا۔ کہا جاتا ہے "زَمَاهُ بِنُكَلِيَّةٍ" اس نے اس کو عبرتناک سزا دی۔

المُنكِلُ: عبرتناک سزا۔ المُنكِلُ: سزا دینے کا سامان۔ النكمة: سخت مصیبت۔ نَكَنَكَ نَكَنَكَةً: الأَمْرُ: درست کرنا — عَلِيٌّ غَرِيْبُهُ : مخفی کرنا۔

نَكَهَ (ف) ض) نَكَهًا الْفُلَانَ وَعَلِيْبَهُ : کسی کی ناک پر سانس لینا۔ نَكَهَتِ الشَّمْسُ : آفتاب کا سخت گرم ہونا۔ نَكِهَةٌ وَنَكِهَةٌ (س) ف) نَكَهًا: کسی کا منہ سو گھنا۔ نَكِهَةَ الرَّجُلُ : بد بعضی کی وجہ سے منہ کی بو کا بدل جانا۔

اِسْتَنَكَهَهُ : کسی کے منہ کی بو سو گھنا۔ کسی کے منہ کی بو سو گھنے کا حکم دینا۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَنَكَهْتُ الرَّجُلَ فَتَكَهَ فِي وَجْهِهِ" میں نے مرد کے منہ کی بو کو سو گھنا چاہا اس نے میرے منہ کے سامنے سانس لیا۔

النكهة: ننگہ کا اسم مرہ۔ منہ کی بو۔ نَكِي يَنْكِي نِكَايَةً الْعُدُوِّ فِي الْعُدُوِّ : قتل کر کے یا زخمی کر کے غالب آنا۔ صفت فاعل نَالِكٌ اور

صفت مفعول مَنَكِيٌّ — الْقَرْحَةُ : زخم کو کہتے ہوئے سے پہلے جمیل ڈالنا۔

نَكِي يَنْكِي نَكِيًّا : ننگت کھانا۔ مغلوب ہونا۔ مغمور ہونا۔

النثل: کمزور بڑھا۔ نَمَ (ن) ض) نَمًا الْحَدِيْثُ : چغل خوری کرنا — الْحَدِيْثُ : ظاہر ہونا — بَيْنَ النَّاسِ : بھڑکانا — الْكَلَامُ : جھوٹ سے آراستہ کرنا — الشُّيْءُ : خوشبو پھیلانا۔ نَمَتِ الرِّيحُ : ہوا کا بوز کولانا۔

النَّامُ: قاج۔ نَمَامٌ : الثَّامَةُ: الثَّامَةُ: الثَّامَةُ: حَسْرَت۔ زندقہ۔ کہا جاتا ہے "اَسْكَبْتُ اللّٰهَ نَمَامَةً" یعنی اللہ سے موت دے۔

النَّمُ: مہ۔ چغل خور۔ ج نَمُوْنَ وَانْبَاءٌ وَنَمٌ : النَّمَامُ: چغل خور۔ ایک خوشبو دار قسم کی نباتات۔ واحد نَمَامَةٌ۔

النَّمَّةُ: نَمٌ: نَمٌ: نَمٌ: نَمٌ: سفید یا سفیدی میں سیاہ داغ۔ اور کہا جاتا ہے "سَمِعْتُ نَمَّةً" میں نے اس کی حرکت سنی۔ النِيْمَةُ: نَمٌ: نَمٌ: نَمٌ: جوں۔

النمى: خیات۔ عیب۔ وحشی۔ طبیعت۔ انسان کا جو ہر اہل۔ نَمِي الرَّجُلُ: مرد کی طبیعت۔ کہا جاتا ہے "مَالِي الدَّارِ نَمِيٌّ" گھر میں کوئی نہیں۔ النَّمِيَّةُ: نَمِيٌّ: نَمِيٌّ: نَمِيٌّ: طبیعت۔ النَّمُوْمُ: چغل خور۔

النميم والنميمة: چغل خوری۔ حرکت۔ کھنے کی آواز۔ کھالی۔ گفتگو کی نرم آواز۔ ج نَمَامٌ۔

النم: چغل خوری۔ النَمَمُ: چغل خور۔ النَمُ وَالتَّمَامُ: چھوٹی چھوٹی جوسیں۔

نَمَرًا (ن) نَمَرًا الرَّجُلُ: غمبناک و بد طلق ہونا — السَّحَابُ: بادل کا چپتے کے رنگ کا ہونا۔

نَمَرًا وَنَمَرًا: غمبناک ہونا۔ بد طلق ہونا۔ نَمَرًا وَجْهًا تَنْمِيْرًا: ترش زور کر دینا۔

<p>نَمَش (ن) نَمَشًا: چغل خوری کرنا۔ جموت ہونا — الكَلَام: جموتی بات بنانا — الجَزَادُ الْأَرْضِي: کھاکے سب صاف کرنا۔ مِنَ الْأَرْضِي: بیوردہ لوگوں کی طرح کچھ اٹھانا۔</p>	<p>ڈالنا۔ بھڑکانا۔ نَمَشِي (س) نَمَسًا السَّمْنُ وَ كُلُّ طَلْبٍ وَ ذُهْنٍ: گھی، خوشبو اور تیل کا خراب ہونا۔ بڑانا۔ صفت نَمَشِي۔</p>	<p>آنمز۔ صاف پالی پانا۔ نَمَشَر: عادت یا رنگ میں پھینکے کے مشابہ ہونا — يَفْلَان: بگڑنا۔ خفا ہونا۔ دھمکی دینا۔ دھمکی دینے میں آواز بلند کرنا۔</p>
<p>نَمَشِي (س) نَمَشًا: داغ دار ہونا۔ دھاری دار ہونا۔ صفت آنمَشِي وَ نَمَشِي۔ نَمَشِي فِي الْأَذْيَةِ: کان میں چپکے چپکے بات کرنا۔</p>	<p>نَمَسَ غَلِيظَةً الْأَمْرُ: ملتبس کرنا۔ خلط ططر کرنا — الشَّمْفُ: بالوں کا تیل لگنے سے میلا کچھلا ہونا — السَّمْنُ أَوْ النَّجَسُ: گھی یا نجیر کا بدبودار ہونا۔ صفت مَنَمَشِي۔</p>	<p>الثَّامُورَةُ وَ الثَّامُورَةُ: بھیرا وغیرہ شکار کرنے کیلئے ایک حلقہ دار لوہا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔ الثَّامُورُ: خون۔</p>
<p>نَمَشِي فِي الْأَذْيَةِ: کان میں چپکے چپکے بات کرنا۔ نَمَشِي الرَّجُلُ: چغل خوری کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "النَّمَشُ بَيْنَهُمْ" یعنی اس نے ان کے درمیان فساد ڈالا۔</p>	<p>نَمَسَ مَنَمَسَةً الْعَصَائِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنا — فَلَانًا: چپکے چپکے بات کرنا۔ نَمَسَ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ بھڑکانا۔ نَمَسَ الْأَمْرُ: ملتبس ہونا۔ خلط ططر ہونا۔</p>	<p>التبعمو والنعمو والتبعمو: اور اس کی کنیت أبو الأبرود اور أبو الأمود ہے اور ان کے علاوہ اور بھی کنیتیں ہیں۔ ج أنمزو وأتمارو ونمزو ویمارو ویمارو و نموزو و نموزو و نمزو و نمزو۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ فُلَانٌ يَفْلَانُ جِلْدَ الثَّيْمِرِ" فلاں فلاں سے بگڑ گیا اور خفا ہوا۔</p>
<p>النمَشِي: مع۔ چکنی چڑی گنگلو۔ النمَشِي: مع۔ داغ۔ دھاری۔ نقش و نگار کے خطوط۔</p>	<p>نَمَسَ مَنَمَسَةً الْعَصَائِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنا — فَلَانًا: چپکے چپکے بات کرنا۔ نَمَسَ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ بھڑکانا۔ نَمَسَ الْأَمْرُ: ملتبس ہونا۔ خلط ططر ہونا۔</p>	<p>الثَّامُورَةُ وَ الثَّامُورَةُ: بھیرا وغیرہ شکار کرنے کیلئے ایک حلقہ دار لوہا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔ الثَّامُورُ: خون۔</p>
<p>النمَشِي: مع۔ داغ۔ دھاری۔ نقش و نگار کے خطوط۔ النمَشِي: مع۔ داغ۔ دھاری دار۔ سنیف۔ نمَشِي: دھاری دار کھوار۔ وَجْهَةٌ نَمَشِي: داغ دار چرو۔</p>	<p>نَمَسَ مَنَمَسَةً الْعَصَائِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنا — فَلَانًا: چپکے چپکے بات کرنا۔ نَمَسَ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ بھڑکانا۔ نَمَسَ الْأَمْرُ: ملتبس ہونا۔ خلط ططر ہونا۔</p>	<p>التبعمو والنعمو والتبعمو: اور اس کی کنیت أبو الأبرود اور أبو الأمود ہے اور ان کے علاوہ اور بھی کنیتیں ہیں۔ ج أنمزو وأتمارو ونمزو ویمارو ویمارو و نموزو و نموزو و نمزو و نمزو۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ فُلَانٌ يَفْلَانُ جِلْدَ الثَّيْمِرِ" فلاں فلاں سے بگڑ گیا اور خفا ہوا۔</p>
<p>النمَشِي: مع۔ داغ۔ دھاری دار۔ سنیف۔ نمَشِي: دھاری دار کھوار۔ وَجْهَةٌ نَمَشِي: داغ دار چرو۔ الأنمَشِي: داغ دار۔ مؤنث نَمَشَاء۔ ج نَمَشِي عَنَزٌ نَمَشَاء: داغ دار برکی۔ رَجُلٌ مَنَمَشِي: فساد آمیز مرد۔</p>	<p>نَمَسَ مَنَمَسَةً الْعَصَائِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنا — فَلَانًا: چپکے چپکے بات کرنا۔ نَمَسَ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ بھڑکانا۔ نَمَسَ الْأَمْرُ: ملتبس ہونا۔ خلط ططر ہونا۔</p>	<p>الثَّامُورَةُ وَ الثَّامُورَةُ: بھیرا وغیرہ شکار کرنے کیلئے ایک حلقہ دار لوہا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔ الثَّامُورُ: خون۔</p>
<p>نمَص (ن) نَمَصًا: الشَّعْوُ وَ التَّبْتُ: بال یا نباتات اکھیرنا۔ نَمَصَ نَمَصًا وَ نَمَصًا الشَّعْرَ: بال اکھیرنا۔ أَنَمَصَ التَّبْتُ: جانور کے چرنے کے بعد دوبارہ آگنا۔</p>	<p>نَمَسَ مَنَمَسَةً الْعَصَائِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنا — فَلَانًا: چپکے چپکے بات کرنا۔ نَمَسَ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ بھڑکانا۔ نَمَسَ الْأَمْرُ: ملتبس ہونا۔ خلط ططر ہونا۔</p>	<p>الثَّامُورَةُ وَ الثَّامُورَةُ: بھیرا وغیرہ شکار کرنے کیلئے ایک حلقہ دار لوہا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔ الثَّامُورُ: خون۔</p>
<p>نَمَصَ نَمَصًا وَ نَمَصًا الشَّعْرَ: بال یا نباتات اکھیرنا۔ أَنَمَصَ التَّبْتُ: جانور کے چرنے کے بعد دوبارہ آگنا۔ نَمَصَتِ النَّمَاشِيَةُ: موشی کا ابتدائی رویہ کی کو چرنا — المَرْأَةُ: اکھیرنے کیلئے پیشانی کے بال کو کھڑنا۔ النمَصُ: سوئی کا رھاگا۔ النمَصُ: مینہ۔ ج نَمَصٌ وَ النَمَصَةُ۔</p>	<p>نَمَسَ مَنَمَسَةً الْعَصَائِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنا — فَلَانًا: چپکے چپکے بات کرنا۔ نَمَسَ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ بھڑکانا۔ نَمَسَ الْأَمْرُ: ملتبس ہونا۔ خلط ططر ہونا۔</p>	<p>الثَّامُورَةُ وَ الثَّامُورَةُ: بھیرا وغیرہ شکار کرنے کیلئے ایک حلقہ دار لوہا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔ الثَّامُورُ: خون۔</p>
<p>النمَصُ: موشی کا ابتدائی رویہ کی کو چرنا — المَرْأَةُ: اکھیرنے کیلئے پیشانی کے بال کو کھڑنا۔ النمَصُ: سوئی کا رھاگا۔ النمَصُ: مینہ۔ ج نَمَصٌ وَ النَمَصَةُ۔ النمَصُ: روئیس کی طرح نرم و ملائم بال۔ چھوٹے چھوٹے پر۔ ابتدائی نباتات۔ ایک قسم کی نرم گھاس جس سے سرپوش وغیرہ بناتے ہیں۔ النمَصُ: اکھیرا ہوا — مِنَ التَّبْتُ وَ گھاس جس کو جانور چر سکیں۔ یا وہ گھاس جو چرنے کے بعد بھر نکل آئے۔ النمَصُ وَ النَمَصُ: موجنا۔</p>	<p>نَمَسَ مَنَمَسَةً الْعَصَائِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنا — فَلَانًا: چپکے چپکے بات کرنا۔ نَمَسَ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ بھڑکانا۔ نَمَسَ الْأَمْرُ: ملتبس ہونا۔ خلط ططر ہونا۔</p>	<p>الثَّامُورَةُ وَ الثَّامُورَةُ: بھیرا وغیرہ شکار کرنے کیلئے ایک حلقہ دار لوہا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔ الثَّامُورُ: خون۔</p>
<p>النمَصُ: روئیس کی طرح نرم و ملائم بال۔ چھوٹے چھوٹے پر۔ ابتدائی نباتات۔ ایک قسم کی نرم گھاس جس سے سرپوش وغیرہ بناتے ہیں۔ النمَصُ: اکھیرا ہوا — مِنَ التَّبْتُ وَ گھاس جس کو جانور چر سکیں۔ یا وہ گھاس جو چرنے کے بعد بھر نکل آئے۔ النمَصُ وَ النَمَصُ: موجنا۔</p>	<p>نَمَسَ مَنَمَسَةً الْعَصَائِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنا — فَلَانًا: چپکے چپکے بات کرنا۔ نَمَسَ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ بھڑکانا۔ نَمَسَ الْأَمْرُ: ملتبس ہونا۔ خلط ططر ہونا۔</p>	<p>الثَّامُورَةُ وَ الثَّامُورَةُ: بھیرا وغیرہ شکار کرنے کیلئے ایک حلقہ دار لوہا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔ الثَّامُورُ: خون۔</p>

نَمَطٌ تَمَطُّ بِمَا بَقِيَ الشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ :
— راہنمائی کرتا۔

أَنْمَطَلَهُ الْغَطَاءُ : کم کرتا۔

النَّمَطُ : ایک قسم کی چادر۔ نوکرے کے مانند
ایک برتن۔ طریقہ۔ روش۔ نوع۔ کہا جاتا ہے
”هَذَا مِنْ نَمَطِ هَذَا“۔ یہ اس کی قسم سے ہے
”وَمَا عِنْدَهُ نَمَطٌ مِنَ الْعِلْمِ“ اسے کسی قسم کا علم
نہیں۔

النَّمَطُ : ایک قسم کا آؤنی کپڑا جو ہوج پر ڈالا
جاتا ہے۔ ج آنمط و نبط اور نسبت کے لیے
أَنْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ : النَّمَطُ : لوگوں کی جماعت
کہ ان کا معاملہ ایک ہو۔
الْأَنْمَطُ : طریقہ۔

النَّمِطَةُ : پارٹی چوٹی۔ مال کی کثرت۔ قوم کا
بہترین حصہ۔ نومو لوڈ پختہ کے سر کا وہ حصہ جو
حرکت کرتا رہتا ہے۔

النَّمِطَةُ : سر کا بالائی حصہ۔ نومو لوڈ پختہ کے سر کا
وہ حصہ جو سخت ہونے سے پہلے حرکت کرتا رہتا
ہے۔

نَمَطٌ (ن) نَمَطَا عَيْنِ فُلَانٍ : آنکھ پر ٹھاپا مارنا
— الْكِتَابُ : لکھنا۔

نَمَطٌ الْكِتَابُ : کتاب کو خوبصورت لکھنا —
الْحِلْمَةُ : کمال کو متشرف کرنا۔
أَنْمَطَتِ النَّخْلَةُ : درخت خرماس بے شمشلی
کے کھجور ہونا۔

النَّمَطُ : کتاب۔ نَمَطٌ الظَّرْفِيُّ : راستہ کا وسط۔
النَّمَطَةُ : بدبو۔

نَوَّبٌ يَنْمِطُ وَنَمَطٌ : متعوش کپڑا۔ وَعَدَاؤُ
قَوْلٌ مُنَمَّطٌ : بتاؤنی وعدہ یا گفتگو۔

نَمَلٌ (ن) نَمَلًا وَنَمِلٌ (س) نَمَلًا وَأَنْمَلُ
چغل خوری کرنا۔ نَمَلٌ وَنَمِلٌ فِي الشَّجَرِ :
درخت پر چڑھنا۔

نَمِلْتُ (س) نَمَلًا يَذُوهُ : ہاتھ کاٹن ہونا۔
تَمَلَّ الْقَوْمُ : حرکت کرنا اور بعض کا بعض
میں داخل ہونا۔

النَّمِيلُ : نا۔ چغل خور۔

النَّمِيلَةُ : النَّمِيلُ : سامنٹ عام راستہ۔
النَّمَلُ وَالنَّمْلُ : چوٹی۔ واحد نَمْلَةٌ وَنَمَلَةٌ

(نکرہ مؤنث) ج نَمَالُ : النَّمَلُ : پہلو کی پھلیاں۔
النَّمِيلُ : چغل خور۔ بہت چوٹیوں والی جگہ۔ کہا
جاتا ہے ”مَكَانٌ نَمِيلٌ وَآرَضٌ نَمِيلَةٌ“ اور کہا جاتا
ہے ”فَرَسٌ نَمِيلٌ أَوْ نَمِلٌ الْقَوْمِ“ گھوڑا جو
کھلیں کرنے کی وجہ سے ایک جگہ قائم نہ رہے و
”رَجُلٌ نَمِيلٌ أَوْ نَمِلٌ الْأَصَابِعِ“ ہر کام میں پھرتلا
مرد۔

النَّمْلَةُ : جموت۔ جانور کے کھری پھلن۔ پہلو کی
پھلیاں۔ ایک قسم کی پھنسی جس میں سوزش ہوتی
ہے اور جو جگہ بدلتی رہتی ہے۔

النَّمْلَةُ : حوض کا بقیہ پانی۔ کہا جاتا ہے ”فَرَسٌ
ذُو نَمْلَةٍ“ بہت حرکت کرنے والا گھوڑا۔

النَّمْلَةُ : ہیشٹ الثون : چغل خوری۔

النَّمْلَانُ : کسی چیز پر اوپر سے جھانکنا۔

النَّمَالُ : چغل خور۔

النَّمِيلَةُ : چغل خوری۔
الْأَنْمَلَةُ : تسع لغات بتخلت الهمزة
والميم : سراگشت۔ اور بقول بعض اَنَمِلُ كَالْوَرِكِ
پورا ج آئامیل و انمالات (بتخلت الحروفين)
النَّمْلِيُّ وَالنَّمْلَةُ مِنَ التَّسَاءِ : ایک جگہ پر
قرار نہ لینے والی عورت۔

النَّمِيلُ وَالنَّمِيلُ : چغل خور۔
النَّمِيلُ وَالنَّمِيلُ : لکھا ہوا۔ گھمان لکھا ہوا۔
النَّمِيلُ : زبان۔ عَلَامٌ مَنَمُولٌ : لکھنا جس
میں چوٹیوں بڑھتی ہوں۔

نَامَلُ نَامَلَةٌ : بیڑی بڑے ہونے کی طرح چلانا۔
کہا جاتا ہے ”هَوَيْتُ نَامِلٌ فِي قَيْدِهِ“

نَمِنْتُمْ : آراستہ کرنا۔ مزین کرنا۔ منقش کرنا۔
نَمِنْتُمُ الزَّيْبُحَ الزَّمَلُ أَوْ الْمَاءُ : دھاری ڈالنا۔
لرؤالنا۔ نَمِنْتُمْ كِتَابَهُ : گھمان ڈالنا۔

النَّمِينُ وَالنَّمِينُ : ریت پر کی دھاری۔ لہر۔
النَّمِينُ وَالنَّمِينُ : جوانوں کے ناخن پر کی
سپیدی۔ واحد نَمِينَةٌ وَنَمِينَةٌ۔

النَّمِينَةُ : مضم۔ نَوَّبٌ نَمِينٌ : منقش کپڑا۔ نَمِينَةٌ
نَمِينَةٌ : گھمان ناات۔ كِتَابٌ مَنَمِينٌ : منقش
کتاب ناقہ مَنَمِينَةٌ : موٹی اونٹنی۔

نَمِيَةٌ (س) نَمِيَةٌ : جیرانی جیسی لائق ہونا۔ صفت
نَامِيَةٌ وَنَمِيَةٌ۔

نَمَاتِنْمُوْ نَمُوْ : زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ بلند ہونا۔

النَّمِيَةُ : سرخی یا سیاہی زائد ہونا۔

النَّمِيَةُ إِلَى فُلَانٍ : نسبت کرنا۔

النَّمُوْ : بڑھنا۔ زیادتی۔

النَّمُوْةُ : زیادتی۔

النَّمُوْدَجُ وَالْأَنْمُوْدَجُ : نمونہ۔ ج
نَمُوْدَجَاتٌ وَأَنْمُوْدَجَاتٌ۔

نَمِيٌ نَمِيَةٌ نَمِيًا وَنَمِيًا وَنَمَاءٌ وَنَمِيَةٌ الْمَاءُ
وَعَيْتَةٌ : زیادہ ہونا۔ بہت ہونا۔ السَّمْعُ : بھاد

گرا ہونا۔ الْجَمْرُ فِي الْكِتَابِ : روشنائی کا
لکھنے کے بعد جب کہ اٹھنا۔ النَّمِيَةُ فِي الْيَدِ
أَوْ الشَّعْرُ : سیاہی زیادہ ہونا۔ الشَّيْءُ عَلَى
الشَّيْءِ : کسی چیز سے بلند کرنا۔ النَّازُ : آگ کو

خوب بھڑکانا۔ الزَّجَلُ : موٹا ہونا۔ الْمَاءُ :
پانی کا چھنا۔ النَّمِيَةُ إِلَى فُلَانٍ : کسی کی

جانب نسبت کرنا۔ الزَّجَلُ إِلَى أَبِيهِ : نسبت
کرنا۔ نَمَتِ الْإِبِلُ : موٹا ہونا۔ کرمی میں گھاس کی
حلاش میں دور تک جانا۔ الصَّنِيْدَةُ : شکار کا زخم

لگ جانے کے بعد نگاہ سے اوچھل ہونا اور مرجانا۔
نَمِيٌ نَمِيَةٌ الشَّيْءُ : بڑھنا۔ النَّازُ : آگ کو
خوب بھڑکانا۔ النَّمِيَةُ إِلَى فُلَانٍ : نسبت
کرنا۔ فُلَانٌ الْغِيْزِيُّ كَالْحَاطِءِ سَ بَحَامًا : کہا جاتا ہے

”فُلَانٌ يَتَّبِعُنِ أَحَادِيثَ النَّاسِ“ فلاں لوگوں کی
باتوں کو لسانا گیزی کے لیے بچھاتا ہے۔
النَّمِيُ إِنْمَاءُ الشَّيْءِ : زیادہ کرنا۔ بڑھنا۔

النَّمِيُ : بڑھنا۔ النَّمِيَةُ : چغل خوری کے
حاطہ سے پھیلانا۔ الصَّنِيْدَةُ : شکار کا زخم لگ
جانے کے بعد نگاہ سے اوچھل ہو کر مرجانا اور

اس کے مقابل میں ”أَضْمِي“ ہے جس کے معنی
یہ ہیں کہ تیر لکھنے کے بعد فوراً مرجائے اور اسی
سے عرب کا قول ہے ”كُنْتُ مَا أَضْمَيْتُ وَذَخَمًا
أَضْمَيْتُ“ — أَلْمِي الزَّايِضِي الْإِبِلُ : چرواہے کا

اونٹوں کو دور تک لے جانا۔ أَمَامَهَا الْكَلْبُ :
گھاس کا اونٹوں کو موٹا کرنا۔ أَلْمِي الْكُتْمُ : اگور
کی تمل میں نچکے دار شاع ہونا۔ أَمْنَيْتُ الْفُلَانِ :
کسی کی معمولی غلطی کو چھوڑ دینا تاکہ بڑی غلطی

میں جھلا ہو جائے اور پھر اس کیلئے کوئی عذر باقی نہ
رہے۔

تَنْمَى تَنْمِيًا الشَّىءُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور بلند ہونا۔

إِنَّمَى إِنَّمَا فَلَانٌ إِلَى آيَةٍ: منسوب ہونا — النَّبَازَى: ایک جگہ سے دوسری جگہ بلند ہونا۔ وَالتَّمَى فَلَانٌ فَوَوقَ الوَسَادَةِ: بلند ہونا۔ التَّامِي: فاجحلت پالنے والا۔

التَّامِيَةِ: التَّامِي كَامَوْنَت: بڑھنے کی طاقت؛ تَمْلُوقٌ — مِنَ الإِبِلِ: موٹے اونٹ۔ نَائِمِيَةُ الكَرِيم: بچھے دار شاخ۔ ح التَّوَامِي: التَّمَاةُ: پھولنی جوں۔ ح تَمَى:

نَهًا يَنْهَأُ نَهْأً الإِنَاءُ: بھرنا اور کہا جاتا ہے شَرِبَ فَلَانٌ حَتَّى نَهَأَ: فلاں نے پیامیں تک کہ سیر ہو گیا۔

نَهَيْتُ يَنْهَأُ وَنَهَوْتُ يَنْهَوُ نَهْأً وَنَهَاءً وَنَهْوً نَهْوً وَنَهْوَةً وَنَهْوَةً: گوشت کا کچا رہنا۔ صفت نَهَيْتُ:

أَنهَأَ إِنهَاءً اللِّحْمَ: گوشت کچا رکھنا — الأَمْزُ: مضبوط نہ کرنا۔

التَّاهِي: حکم سیر سیراب۔ التَّهْوَةُ: جنگلی۔

نَهَبَ (ف) وَنَهَبَ (س) نَهَبًا الغَنِيْمَةَ: مالِ غَنِيْمَتٍ لَوْثًا — القَوْمُ فَلَانًا: سخت ست کرنا۔ نَهَبَةُ الكَلْبِ: کتے کا لڑائی پر کالت لینا۔

نَاهِبَةٌ مَنَاهِبَةٌ: دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔ نَاهَبَ القَوْمُ فَلَانًا: سخت ست کرنا — الغَنِيْمَةُ: مالِ غَنِيْمَتٍ لَوْثًا۔

أَنهَبَ الرَّجُلُ مَالَهُ: لوٹنے کا موقع دینا۔ أَنهَبَهُ المَالُ: لٹارنا۔

تَنَاهَبَتِ الإِبِلُ الأَرْضَ: ٹالگوں کے نیچے کرنا۔ تَنَاهَبَ الفَرَسَانِ: باہم لوٹنا اور دوڑنے میں مسابقت کرنا۔

إِنهَبَ الفَرَسُ الشَّوْطَ: غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے «جَوَادٌ يَنْقُصُ الغَايَةَ: گھوڑا جو غایت تک سابق ہوتا ہے» وَ«إِنهَبَتِ النَّهْبُ: مالِ غَنِيْمَتٍ كَوَلِيْنَا»۔

النَّهْبُ: مہ۔ کہا جاتا ہے «هَذَا زَمَانٌ النَّهْبُ: یہ لوٹ کا وقت ہے۔ غَنِيْمَتٌ: ہر وہ چیز جو لوٹی جائے۔ ح نَهَابٌ: النَّهْبُ: ایک قسم کی

دوڑ۔

النَّهْبَةُ وَالتَّهْبِيُّ وَالتَّهْبِيُّ وَالتَّهْبِيُّ لَوْثٌ: لُوٹی ہوئی چیز۔

التَّهَابُ: بہت لوٹنے والا۔

المِنهَبُ: دوڑ میں فوقیت لے جانا والا گھوڑا۔

المُنهَبُ: مصدر مِثْلِي بِمَعْنَى انتساب۔ لَوْثٌ كِي جگہ۔

المُنهَبُوبُ: مفع۔ فوری مطلوب۔

التَّهَابِيرُ وَالتَّهَابِيرُ: ہلاکتیں۔ زمین یا ریت کی بلند جگہیں۔ اور بقول بعض ٹیلوں کے درمیان گڑھے۔ واحد نُهْبِيرَةٌ وَنُهْبُورَةٌ وَنُهْبُورَةٌ:

التَّهَابِيرُ: جسم اور کہا جاتا ہے «غَيْشِي بِهِ التَّهَابِيرُ» اس نے اس کو سخت کام پر برا لگینے کیا۔

النَّهْبِيَّةُ: لمی لاغر عورت یا قریب بہ ہلاکت۔

النَّهْبُوعُ: ایک قسم کا پرندہ۔ ایک قسم کی لمی تیز رفتار کشتی جس کو دو بیج بھی کہتے ہیں۔ جو مغرب سے روٹی کا۔

نُهْبَلُ: الرَّجُلُ: عمر رسیدہ ہونا۔ لنگڑا ہونا اور لنگڑے بچوں کی طرح چلنا۔

النَّهْبَلُ: عمر رسیدہ۔ کہا جاتا ہے «مُنهَبٌ نُهْبَلٌ وَعَجُوزٌ نُهْبَلَةٌ» عمر رسیدہ بڑھا۔ عمر رسیدہ بڑھیا۔

التَّهْبَلَةُ: گرانباری کی چال۔ موٹی اونٹنی۔

نَهَبْتُ (ض) نَهَبَاتًا وَنَهَبَاتًا الأَسْدَاو الحِمَاوُ الرَّجُلُ: شیر کا گونجا۔ گدھے کا رینگنا۔ مرد کا آواز کرنا۔ نالہ کرنا۔ کہا جاتا ہے «وَإِيْنَةُ يَنْهَبْتُ كَمَا يَنْهَبُ القَرْدُ» میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح آواز نکال رہا تھا جیسے بندر نکالتا ہے۔

النَّاهِبُ: نا۔ حلق۔ التَّهَاتُ: رینگنے والا۔ — وَالمُنهَبَةُ: شیر۔ نَهَبْتُ فَلَانٌ عَلَيْنَا: جھوٹ بانہ حنا۔

نَهَجَ (ض) وَنَهَجَ (س) نَهَجًا الرَّجُلُ: ہانپنا۔ دمہ والا ہونا۔

نَهَجَ (ف) نَهَجًا النَّوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ صفت نَهَجَ:

نَهَجَ (ف) نَهَجًا النَّوْبُ: کپڑے کو پرانا کرنا۔

بوسیدہ کرنا — الأَمْزُ: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا۔

الظَّرِيقُ: راستہ میں چلنا۔

نَهَجَ (ف) نَهَجًا وَنَهَجًا الظَّرِيقُ: الأَمْزُ:

راستہ کا یا معاملہ کا واضح ہونا۔

أَنهَجَ الظَّرِيقُ: الأَمْزُ: راستہ یا معاملہ کا واضح ہونا ظاہر ہونا — الظَّرِيقُ: الأَمْزُ:

راستہ یا معاملہ کو واضح کرنا۔ ظاہر کرنا — الذَّائِبَةُ:

چوپایہ پر سوار ہو کر سانس چڑھانا — فَلَانًا:

سانس چڑھانا — النَّوْبُ: کپڑے کو پرانا کرنا بوسیدہ کرنا — النَّوْبُ: کپڑا پرانا ہونا یا کھسکی شروع ہونا۔

إِنهَجَ الرَّجُلُ: چلنا۔ اور بقول بعض واضح

راستہ تلاش کرنا — الظَّرِيقُ: راستہ کو ظاہر

کرنا۔

إِسْتَهَجَ: الظَّرِيقُ: راستہ کا واضح ہونا۔

فَلَانٌ سَبِيلَ فَلَانٍ: بیرونی کرنا۔

ظَرِيقٌ نَاهِجَةٌ: واضح راستہ۔

النَّهَجُ: مہ۔ واضح راستہ۔ کہا جاتا ہے «ظَرِيقٌ نَهَجٌ وَظَرِيقٌ نَهَجَةٌ وَنَهَجَاتٌ وَنَهَجٌ وَنَهَجٌ»:

نَهَجُ البِلَاعَةِ: بلاغت کے واضح طریقے۔ ایک کتاب کا نام جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطبات؛ اقوال؛ مکاتیب؛ نصح جمع کیے گئے ہیں۔

النَّهَجُ وَالتَّهَجُ: ہانپنا۔ المُنهَجُ وَالمُنهَجُ وَالمُنهَجُ: کشادہ راستہ۔ ح مَنَاهِجُ:

النَّهَجُ: جلدی بوسیدہ ہونے والا کپڑا۔

نَهَدَ (ف) نَهْدًا النَّوْبُ: پستان کا بھرنا

نَهَدَتِ المَرْأَةُ: ابھرے ہوئے پستان والی ہونا۔

صفت نَاهِدٌ وَنَاهِدَةٌ — القَرْبَةُ: حنک کا

بھرنے کے قریب ہونا) — نَهْدًا وَنَهْدًا بِالْعَدُوِّ

وَالِى العَدُوِّ: دشمن پر جلدی حملہ کرنا — الھَدْيَةُ: ہدیہ کو بڑا سمجھنا بڑا کرنا۔

نَهَدَ (ف) نَهْدًا: اٹھنا — إِلَيْهِ: کھڑا ہونا۔

جیسے «ذَخَلَ المَسْجِدَ فَنَهَدَ النَّاسَ لِيَسْأَلُوْنَهُ»

یعنی وہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔

نَهَدَ (ك) نَهْدَةً الفَرَسُ: گھوڑے کا عمرہ اور مضبوط ہونا۔

نَهَدَتِ المَرْأَةُ: ابھرے ہوئے پستان والی

ہونا۔ صفت مَنَهْدَةٌ:

نَاهِدَةٌ مُنَاهِدَةٌ. لڑائی میں کسی کا مقابلہ کرنا۔
 أَنَهَدَ الْعَطِيَّةُ: عطیہ کو بھرانا — الْحَوْضُ
 أَوْ الْإِنَاءُ: حوض یا برتن کو بھرا یہاں تک کہ
 چھلکنے لگے۔ أَنَهَدْتَ الْمَرْأَةَ: اہمیرے ہوئے
 پستان والی ہونا — فَلَانًا: اٹھانا۔

تَنَهَّدَ الرَّجُلُ: ٹھنڈی سانس لینا۔
 تَنَاهَدَ الْقَوْمَ: برابر برابر نقتہ نکالنا تاکہ اس
 سے مشترک طور پر قلعہ خریدیں اور جو نقتہ نکالا
 جائے اس کو انہد کہتے ہیں۔ تَنَاهَدَ الْقَوْمَ
 الشَّيْءُ: آپس میں لین دین کرنا۔ تَنَاهَدُوا فِي
 الْحَوْزِ: لڑائی میں ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔
 اسْتَنَهَدَهُ لِرَايٍ فِي اسْتَنْهَى كَيْلَيْهِ بِلَانًا۔

التَّاهِدُ - فَا - نَهْدًا وَ نَهْدًا: اہمیرے ہوئے
 پستان والی عورت۔ ج نَوَاهِدُ - التَّاهِدُ - شِيرُ
 غَلَامٍ تَاهِدٌ: قریب البلوغ لڑکا۔

النَّهَادُ - مَقْدَارُ - اِنْدَاةٍ - كَمَا جَاتَا فِي هَذَا
 نَهَادًا مَائِيَّةً - بِه مَقْدَارِ سَوَكٍ هُوَ -

النَّهْدُ - مَم - بَلَدٌ جَزِيرٌ - شِيرٌ - كَرِيمٌ - عَمَهُ مَضْبُوطٌ
 مَكُوْرًا - مَسْكٌ - يَسْتَانُ - ج نَهْدُودٌ -

النَّهْدُ - نَقْدَةٌ جَوْ شَرَاءٍ سَفَرٍ بِرَابِعٍ بَرَابِعٍ نَكَالِيْنِ - كَمَا
 جَاتَا فِي "مَطْلُوحٍ نَهْدَةٌ مَعَ الْقَوْمِ" - يَعْنِي اِسْنِي اِسْنِي
 اِن كِي مَدْرِكِي -

النَّهْدَاءُ - رِيْتٌ كَابَلْدِيْلِيَّةٌ -

حَوْضٌ أَوْ إِنَاءٌ نَهْدَانٌ - مَبْرُورٌ أَوْ حَوْضٌ يَابِرْتِنِ
 جَوْ اَبْحِي چھلکنے ہو -

النَّهْيِدُ - كَاْزِحَا مَسْكٌ -

النَّهْيِدَةُ - كَاْزِحَا مَسْكٌ - اِيْكٌ قِسْمٌ كَا كَمَا جَاوِ

اِنْدَا اِسْنِي كِي سِج كِي مَخْرُوكَا اَسْنِي سِي مَلَا كَرِيْتَارِيَا

جَاتَا فِي -

النَّهْدُودُ اِلْيِيْهِ: جِس كَا قَصْدُ كِيَا جَائِي جِس كِي
 طَرَفٌ اُتْحَا جَائِي -

النَّهْدَاةُ - مَم - مَجْمُوْرًا كَرِنَا -

نَهْوٌ (نَس) نَهْوُ الدَّمِ: خُون كَا زَوْر سِي بَسِنَا

- اَلْمَاءُ يَابِي كَابَسِنَاو نَسْرَبَالِيَا - النَّهْوُ: نَسْرُ

كُوْدِنَا - نَسْرُ جَارِي كَرِنَا - اَلْمَسَائِلُ: سَاكُلُ كُو

ذَا اُتْحَا - وَ نَهْوٌ (س) نَهْوًا اَلْحَايُوْرُ: كُوْدِنِي

وَالِي كَابِيَانِي تِك بِيْحِنَا - كَمَا جَاتَا فِي "حَفْوْرَتٌ
 اَلْيُسُوْرُ حَتَّى نَهْوَتْ" - مِيْن لِي كُوَا اِسْنِي كُوَا اِسْمَا

تِك كِي پَانِي تِك بِيْحِنَا كِيَا -

اَنْهَزَ النَّهْرُ: نَسْرُ كُو وَسِيْعُ كَرِنَا - چُوْرَا كَرِنَا (اَوْرِيِي

نِيْزِه كِي زَمَمُ كِيْلِي بِي اَسْنِي) - اَلدَّمُ: خُون

نَكَالِنَا - بَسِنَا - اَلدَّمُ: خُون كَابَسِنَا - اَلْعُرْفُ:

رِك سِي خُون نَسْرُ كَرِنَا - فَلَانًا: بِيْحَالِي كُوْنِي بِيْحِنَا

- فِي اَلْعُدُوْ: تَاخِيْرُ كَرِنَا - سَسْتِي كَرِنَا -

الرَّوْحُلُ: دِن كَرِنَا - اَلْبَيْظُ: بِيْحِيْتُ چِلَانَا -

اَلْحَايُوْرُ: كُوْدِنِي وَالِي كَابِيَانِي تِك بِيْحِنَا -

اَلنَّهْوُ السَّائِلُ: سَاكُلُ كُوَا اُتْحَا - اَلْعُرْفُ:

رِك سِي خُون نَسْرُ كَرِنَا - بِيْحَالِي: بِيْحِيْتُ چِلَانَا -

اِسْتَنَهَزَ النَّهْرُ: نَسْرُ كَا پِيْسِي بَسِنِي كِي لِيِي مَضْبُوطٌ

بِكَلْمِ بِنَانَا - اَلشَّيْءُ: وَسِيْعٌ وَ كَشَادِهٌ هُوَا نَاوْرُ اِرُوْدِه جِيْزِ

جُو بَسْتِ هُوَا اَوْرِ بَسْرِي اَسْنِي كِيْلِي اِسْتَنَهَزَا كُوَا

اِسْتِمَالُ كَرِنِي هِيْن -

اَلتَّاهِرُ - فَا - سَفِيْدًا اَنْوَرٌ -

اَلنَّهَارُ - دِن - نَسْرُ شَرِيِي مَسْجُ سِي لِي مَغْرِبِ

تِك - ج نَهْوُ وَ نَهْوُ -

اَلنَّهَارِيِي: كَمَا جَاتَا جُوْدِن كِي اِبْتِدَائِي حَسْبِ مِيْن كَمَا

جَائِي - مَاشِيَّةٌ -

اَلنَّهْرُ - نَدِي - وِرْيَا - ج اَنْهَرُ وَ اَنْهَارُ وَ نَهْرُ وَ

نَهْوْرُ -

اَلنَّهْرُ نَجْمَانُش - وَسِيْعٌ - نَسْرُ مِيْن اِيْك اَلْمَتِ هُوَ -

اَلنَّهْرُ - سَفِيْدًا اَنْوَرٌ - كَمَا جَاتَا فِي "نَهْوٌ نَهْوٌ" كَشَادِه

نَسْرُ - "نَهْوَانُ نَهْوٌ" وَ رُوْشُ دِن "مَاءٌ نَهْوٌ" بَسْتِ پَانِي -

اَلنَّهْوِيِي بَسْتِ -

اَلنَّهْوِيِيَّةُ - بَسْتِ دُوْدِه وَ اَلِي اُوْتْحِيِي -

اَلْاَنْهَرُ - اِسْمُ تَفْضِيْلِ - نَهَارُ اَنْهَرُ: بَسْتِ رُوْشِ

دِن -

اَلْاَنْهَرَانُ مِيْن مَنَازِلِ اَلْقَمَرِ: چَانِد كِي مَنَازِلِ

مِيْن عَرُوْرَا اَوْر سَمَآكِ نَامِي دُو سَتَارِيِي -

اَلتَّاهُوْرُ - بَاوَلِن -

اَلْمَنْهَرُ - پَانِي بَسِنِي كِي جِكِ جِس كُو خُوْرِيَانِي لِي بِنَا يَا

هُوَ - قَلْبٌ سِي پَانِي يَابِرْتِنِي كِي نَابِي -

سِرْبَانَا - اَلشَّيْءُ: قَرِيْبٌ هُوَا - فَلَانًا: بِيْحِمُ

لِيْنِي كِيْلِي اُتْحَا - اَلْفَيْصِلُ مَضْرُوعٌ اَمْتِه اُوْتِ

كِي سِيچ كِي مَانَا كِي تَحْنِ پَر مَكْرَمَارِنَا - اَلدَّابَّةُ

چِرْبَابِي كَا سِيْنِدُ نَكَالُ كَرِنَانَا - اَلدَّابَّةُ يُوَا سِيْحَا:

چِرْبَابِي كَا پِيْسِي اَبْسِي سِي دَفْعُ كَرِنَا - اَوْر جِبِ دُوْدِه

چِمْرَانِي كِي قَرِيْبٌ هُوَا تُو كَمَا جَاتَا فِي "نَهْوُ

لِلْفَيْظَامِ" - صَفْتُ ذِكْرُ نَاهَزُوْرٍ اَوْر صَفْتُ مَوْتِ

نَاهَزُوْرَةٍ: نَهْوُ بِالذَّلْوِ فِي اَلْيُسُوْرِ: ذُوْلُ كُو كُوْتِيْنِ

مِيْن مَبْرُجَانِي كِي لِيِي بِلَانَا - اَلذَّلْوُ مِيْن اَلْيُسُوْرِ:

ذُوْلُ كُو كُوْتِيْنِ سِي نَكَالِنَا - نَهْوُ الرَّجُلُ: سِي

كَرِنِي كِي لِيِي مَرُوْدِن اُتْحَا اَوْر سِيْنِدُ نَكَالِنَا -

فِيْحَا: بِيْحِيْتُ بِيْحِيْتَانَا اَوْر كَمَا جَاتَا فِي "نَهْوُ تَيْنِ

اَلْيَلِكِ حَآجَةً" - جِيْحِي سُرُوْرَتُ تَمَارِيِي پَآسِ لِي

اَتِي -

نَاهَزُوْرَةٌ مُنَاهَزَةٌ: قَرِيْبٌ هُوَا - كَمَا جَاتَا فِي "نَاهَزُوْرٌ

اَلْحَفْسِيْنِ" - اِس كِي مَعْرِيْبَآسُ كِي قَرِيْبٌ هُوَ

"وَ نَاهَزُوْرٌ لِّلْفَيْظَامِ" - دُو دُوْدِه چِمْرَانِي كِي قَرِيْبٌ

پِيْحَا - اَلصَّبِيْدُ: سَبِيْقَتُ كَرِنَا - اَلْقُرُوْصَةُ:

قِيْمَتُ جَانِنَا - نَاهَزُوْرَتُهُمْ اَلْقُرُوْصُ: فَرْمَتُ پَانَا -

اَنْهَزُوْرَةٌ: دَفْعُ كَرِنَا - اُتْحَانَا -

تَنَاهَزَا: سَبِيْقَتُ كَرِنَا - كَمَا جَاتَا فِي "تَنَاهَزُوْرَا

اَلْقُرُوْصُ" - اَسْمُوْنُ لِي فَرْمَتُ كُو قِيْمَتُ جَانِنِي كِي

وَجِبِ سَبِيْقَتُ كِي -

اِسْتَنَهَزَ الْقُرُوْصَةَ: قِيْمَتُ جَانِنَا اَوْر سَبِيْقَتُ كَرِنِي

هُوَ اُتْحَا - اَلشَّيْءُ: قَبُوْلُ كَرِنَا اَوْر لِيْنِي كِي

جَلْدِي كَرِنَا - فِي الصَّخْلِكِ: بَسْتِ زَوْر سِي

بَسِنَا -

اَلتَّاهِرُ - فَا نَاهَزُوْرُ الْقَوْمِ: قَوْمُ كَا سَرُوَارِ - قَوْمُ كَا

چُو دَهْرِي -

اَلنَّهَارُ وَ اَلْبِيْحَارُ: قَدْرُ - اِنْدَاةٌ - كَمَا جَاتَا فِي

"هَذَا اَنْهَارٌ ذَاكَ" - يِي اِس كِي مَقْدَارِ هُوَ -

اَلنَّهْوُ - مَم - هَاتِحُ مِي لِيَا - لِيْنِي كِيْلِي اُتْحَا - اَوْر كَمَا

جَاتَا فِي "نَهْوَةٌ كَذَا" - يَعْنِي اِس كِي مَقْدَارِ اَتْحِي

هُوَ -

اَلنَّهْوُ - شِيْرُ -

اَلنَّهَارُ: اِسْمُ مَبْلَغِ - چِلِيِي مِي سِيْنِدُ نَكَالِيِي وَ اَلَا

كِدْحَا -

اَلنَّهْوَةُ: فَرْمَتُ - ج نَهْوُ: كَمَا جَاتَا فِي "هُوَ

نَهْضَةُ الْمُخْتَلِسِ "وہ ہر ایک کا شکار ہے۔
الْمَنْهَوِيُّ مِنَ الْبَيْتِ: کنوئیں کا من۔
الْمَنْهَوْرَةُ: مہ۔ مسابقت۔

نَهْسٌ (ف) و نَهَسٌ (س) نَهَسَا اللَّحْمَ:
گوشت کو اگلے دانٹوں سے لوچنا۔ نَهَسَتْ
الْحَيَّةُ فَلَانًا: سانپ کا ڈنٹا۔ نَهَسَ الْكَلْبُ
فُلَانًا: کتے کا کسی کو لوچ لینا۔

اِنْتَهَسَ اللَّحْمَ: گوشت کو اگلے دانٹوں سے
لوچنا۔ فُلَانًا: غیبیت کرنا۔

النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: لٹورے کے مانند ایک
پرندہ جو ہمیشہ اپنی ذم بلا تارتا ہے اور چڑیوں کا
شکار کرتا ہے۔ ج: نَهَسَانٌ۔

النَّهَّاسُ وَالنَّهْوَسُ وَالْمَنْهَسُ وَالْمَنْهَسُ
بِتِ دَانَتْ سَ كَانَتْ وَاللَّيْمُ - شِيرٌ - بَحِيرِيَا -
النَّهَّاسُ: کائے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "أَرْضُ
كَبِيرَةٍ فَا الْمَنْهَاسُ" بہت چراگاہ والی زمین۔

النَّهْسُ: کم گوشت والا۔ ذبلا۔ الْكَنْهَوَسُ: مہ۔
کم گوشت والا۔ وَجَلَّ مَنَهْوَسُ الْقَدَمَيْنِ:
دبیلے پتلے قدم کا مرد۔

نَهَسَتْ نَهْسَرَةً: اللَّحْمَ: گوشت کاٹنا۔
الْقَلْعَامُ: کمانا۔

النَّهْسَرُ: بھیڑیا۔ یا جو سے بھیڑیے کا پتہ۔ ہلکا
پھلکا۔ تیز رفتار۔ گوشت کا بہت خریدیں۔

نَهَسَتْ (ف ض) نَهَسًا: اگلے دانٹوں سے
لوچنا۔ دانت سے کات کر نشان ڈالنا۔ الْحَيَّةُ:
سانپ کا ڈنٹا۔ نَهَسَتْ الدَّهْرُ: مشقت میں ڈالنا۔
نَهَسَتْ وَاِنْتَهَسَتْ أَعْضُلَانًا: لاغر ہونا۔

النَّهْوَسُ: مظالم۔ عرب والوں کے قول
نَهَسَتْ سے جبکہ مشقت میں ڈال دیں۔ کہا جاتا
ہے "هُوَ نَهَسُ الْيَدَيْنِ أَوْ الْقَوَالِيمِ": وہ ہاتھ
پاؤں کا بھرتا ہے۔

الْمَنْهَوَسُ: مہ۔ مشقت میں پڑا ہوا۔ دہلا۔
نَهَسَلُ الرَّجُلُ: بڑی عمر کا ہونا۔ فُلَانًا:
دانت سے کاٹنا۔ الشَّيْءُ: سخت بھوکے کی مانند
کمانا۔

النَّهْسَلُ: بھیڑیا۔ شکر۔ بہت بڑھا۔ بڑھاپے کی
وجہ سے کاٹنے والا۔ مَوْنَتْ نَهْسَلَةٌ:
نَهَسٌ (ف) نَهَسًا وَنَهْوَسًا: کھڑا ہونا۔

عَنْ مَكَائِبِهِ: اٹھنا۔ اِلَى عَدُوِّهِ: جلدی سے
حملہ کرنا۔ التَّبِيْتُ: نباتات کا سیدھا کھڑا ہونا
- لِأَلْمَرِ: مستعد ہونا۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا
اڑنے کیلئے بازو پھیلاتا۔ نَهَسًا: فُلَانًا: ظلم
کرنا۔ الشَّيْبُ فِي الشَّبَابِ: جلدی بوجھلپا
شروع ہو جانا۔

نَاهَضَ فِرْزَهُ مُنَاهِضَةً: مقابلہ کرنا۔
أَنَهَضَهُ: اٹھانا۔ کھڑا کرنے کیلئے ہلانا۔ اِنْتَهَضَتْ
الزَّبِيحُ الشَّحَابِ: ہوا کا بارشوں کو چلانا اور اٹھانا
- الْفِرْزِيَّةُ: منگ کو چھلکنے تک بھرنا۔ اِنْتَهَضَهُ
بِالشَّيْءِ: تنگ لگا کے اٹھانا۔

تَنَاهَضُوا فِي الْحَزْبِ: جگہ میں ایک
دوسرے پر حملہ کرنا۔

اِنْتَهَضَ: کھڑا ہونا۔ فُلَانًا لِأَلْمَرِ: مستعد
کرنا۔ کھڑا کرنا۔ الْقَوْمُ: مقابلہ کے لیے کھڑا
ہونا۔

اِسْتَنْهَضَهُ لِكَذَا: کسی کام کیلئے اٹھنے کو کہنا۔
النَّاهِضُ: فا۔ اڑنے کے لائق پرندہ کا پتہ۔
گھوڑے کے بازو کے اوپر کا گوشت۔ کہا جاتا ہے
"عَامِلٌ نَاهِضٌ" کر گزرنے والا "وَمَكَانٌ
نَاهِضٌ" بلند جگہ۔

نَاهِضَةُ الرَّجُلِ: مرد کے باپ کی اولاد اور اس
کے خدام وغیرہ۔ ج: نَوَاهِضُ: النَّوَاهِضُ بڑے
ڈیل ڈول اور سخت بدن والے اونٹ۔

النَّهَاضُ مِنَ الطَّلُوقِ: راستہ کی بلندیاں اور
گھاٹیاں۔ النَّهَاضُ: جلدی۔

النَّهْضُ: مہ۔ - مِنَ الْبَحِيرِ: اونٹ کے
مونڈھے اور کندھے کے درمیان کا حصہ۔ ج:
أَنَهَضَ النَّهْضُ: ظلم و زبردستی۔ سخت زمین۔

النَّهْضَةُ: نَهْضُ کا اسمِ مرۃ۔ طاقت و قوت۔
زمین کی چڑھائی کہ جس میں انسان یا چوپایہ پست
زمین سے چڑھتے ہوئے ٹھک جائے۔ ج: نَهَاضُ:
کہا جاتا ہے "كَانَ مِنْهُ نَهْضَةٌ إِلَى كَذَا" اس کی
حرکت فلاں جانب ہے "وَهُوَ كَثِيرُ النَّهْضَاتِ"
وہ بہت حرکت والا ہے۔

النَّهَاضُ: بہت اٹھنے والا۔ گلا۔ مَكَانٌ نَهَاضٌ:
بلند جگہ۔
النَّهْضَلُ: عمر رسیدہ آدمی یا گدھ یا بازا۔

نَهَطَهُ (ف) نَهَطًا بِالرِّمْحِ: نیزہ مارنا۔
نَهَجَ (ف) نَهْجًا عَنَانًا: کرنا اور کچھ نہ لگانا۔

نَهَفَ (ف) نَهْفًا الرَّجُلُ: تمبیر ہونا۔
نَهَقَ (ف ان ض) وَنَهَقَ (س) نَهَقًا وَنَهَيْقًا
نَهَاقًا وَنَهَاقًا الْجَمَازُ: گدھے کا رینگنا۔
صفت ناهق۔

تَنَاهَقَتِ الخُمْرُ: گدھوں کا رینگنا۔
النَّاهِقَانُ: کھردار جانور کے جڑے کی دو
آہری ہوتی ہڈیاں اور ان کو النَّوَاهِقُ بھی کہتے
ہیں۔

نَوَاهِقُ الجِمَارِ وَنَوَاهِقُهُ: گدھے کے گلے
سے آواز نکلنے کی جگہ اور بقول بعض نَوَاهِقُ اُن
کو کہتے ہیں جو جانور کی ناک کے آخری حصہ کو
گیبے ہوئے ہیں۔ واحد نَوَاهِقَةٌ۔

النَّهْقُ: مہ۔ پرندہ کی ایک قسم (س) - وَالنَّهْقُ
ایک قسم کی نباتات۔ واحد نَهْقَةٌ وَنَهْقَةٌ۔

نَهَكَهُ (ف) نَهَكَوْا نَهَاكَةً: غالب ہونا۔ نَهَكَ
النَّوْبُ: پین کر بوسیدہ کرنا۔ - مِنَ الطَّعَامِ وَ
فِيهِ: کھانے میں مبالغہ کرنا۔ عِزُّ فُلَانٍ:
آبروریزی میں مبالغہ کرنا۔ الضَّغْنُ: تھن

سے دودھ نکال لینا۔ نَهَكَتِ الْإِبِلُ مَاءً
النَّحْوِضُ: سارا پی جانا۔ الحُمَى فُلَانًا: لاغر
کرنا۔ مشقت میں جھلا کر دینا۔ الشَّرَابُ
فُلَانًا: ڈبلا کرنا۔

نَهَكَهُ (س) نَهَكَوْا نَهَكَةً: سخت سزا دینا۔
نَهَكَوْا وَنَهَكَوْا نَهَكَةً وَنَهَكَةً الحُمَى
فُلَانًا: لاغر و دہلا کرنا (س) نَهَكَوْا فُلَانًا
الشَّرَابُ: ختم کرنا۔

نَهَكَ نَهَكَةً: لاغر و دہلا ہونا۔ صفت مَنَهْوَاكٌ۔
نَهَكَ (ك) نَهَاكَةً: دلیر ہونا۔

أَنَهَكَهُ: سخت سزا دینا۔
اِنْتَهَكَهُ الحُمَى: لاغر و دہلا کرنا۔ اِنْتَهَكَ
فُلَانًا الحُمَى: اپنے چال چلن کو خراب کرنا
- الشَّيْءُ: بے عزتی کرنا۔ فُلَانًا: بے آبروی
کرنا۔

النَّاهِكُ: فا۔ تمام چیزوں میں مبالغہ کرنے والا۔
النَّهْكَ: مہ۔ - مَجْرَجُ كَرْمٍ: دو ٹمٹ کو حذف
کرنا۔ جَزَعًا خَيْرٌ كَمَا تَقِي كَوْمَنَهْوُوكَ كَتَمَ: ہیں۔

التَّهْنُكَةُ: نھك كاسم مرۃ۔ كما جاتا ہے "بَدَتْ فِيهِ تَهْنُكَةُ الْمَرْحُومِ" اس میں مرض کا اثر دہلایا گیا تھا۔
 التَّهْنُوكُ: ریلز۔
 التَّهْنِيكُ: تمام چیزوں میں مبالغہ کرنے والا۔
 ریلز۔ مضبوط اونٹ۔ تلوار کا طاق۔ کہا جاتا ہے "سَيِّفٌ تَهْنِيكٌ" اچھے اخلاق والا () —
 والتَّهْنِيكُ: پسو کے مانند ایک کیرا جس کو حرقوس بھی کہتے ہیں۔
 التَّهْنِيكَةُ: باعث پروردہ ری۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَتَّهْنِكَةٌ لِأَعْرَاضٍ" یہ آبروریزی کا سبب ہے۔
 تَهَلَّتْ (ی) تَهَلَّأَتْ وَتَهَلَّأَ الْإِبِلُ: پہلی بار بیٹا۔
 بیاسا ہوتا۔
 أَتَهَلَّ الْإِبِلُ: پہلی بار پلانا — الْقَوْمُ: پہلی بار پنے ہوئے اونٹوں والا ہونا — أَتَهَلَّوْا زَزَعَهُمْ: پہلی مرتبہ سیراب کرنا۔ أَتَهَلَّ فُلَانًا: غھبناک کرنا۔
 التَّاهِلُ: فا۔ سیراب۔ بیاسا۔ ج۔ تَهَلُّ وَتَهَلُّوا تَهَلُّوا وَتَهَلُّوا وَتَهَلُّوا وَتَهَلُّوا: چشمہ کی طرف آنے جانے والی ج نہال و تَوَاهِلُ: التَّوَاهِلُ: بھوکے اونٹ۔
 التَّهَلُّ: مہ۔ جمع ناہل۔ پہلی مرتبہ بیٹا۔ وہ خوراک جو کھائی جائے۔
 التَّهْلَانُ: پینے والا۔ سیراب۔ بیاسا۔ ج۔ تَهْلِي: اِبِلٌ تَهْلِي: بھوکے اونٹ۔
 التَّهْلَالُ: بہت غصہ والا تہہ والا۔ ریت کا بلند ٹیلہ جس سے ریت گرتی رہے۔ قبر۔ بہت فاض۔
 التَّهْلِيلُ: گھٹ۔ بیٹا۔ راستہ پر پانی پینے کی جگہ۔
 ج۔ تَهْلِيلُ: تَهْمٌ (ف) تَهْمًا وَتَهْمَةً وَتَهْمًا الْإِبِلُ: اونٹ کو تیزوڑنے کے لیے ڈانٹنا۔
 تَهْمٌ (ض) تَهْمًا: بہت کھانا۔
 تَهْمٌ (ض) تَهْمًا وَتَهْمًا الْفَيْلُ: ہاتھ کا چکھاڑنا۔
 تَهْمٌ (س) وَتَهْمٌ تَهْمًا وَتَهْمًا فِي الْأَكْلِ: حریس ہونا — فُلَانٌ فِي الشَّيْءِ: مشتاق ہونا۔
 تَاهَمَةٌ مُتَّاهِمَةٌ: باہم ٹھٹری سانس بھرتا۔

إِنْتَهَمَ: جھڑکی کھانا۔
 التَّاهِمُ: فا۔ چلانے والا۔
 التَّهَامُ: بتلیت النون۔ لوہار۔ بروہی۔
 التَّهَامُ: الو۔ راہب۔ ج۔ تَهْمُ۔
 التَّهَامِيُّ: بتلیت النون۔ لوہار۔ بروہی۔
 التَّهَامِيُّ وَالتَّهَامِيُّ: راہب۔ آسان راستہ۔
 التَّهْمُ: حریس۔
 التَّهْمَةُ: مہ۔ تَهْمٌ كاسم مرۃ۔ حاجت۔ کسی چیز کی خواہش۔ کہا جاتا ہے "لَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ تَهْمَةٌ" اس کو اس کی خواہش ہے وَقَضَى مِنْهُ تَهْمَتَهُ اس نے اپنی خواہش پوری کی۔
 التَّهَامُ: اسم مبالغہ۔ شیر۔ واضح راستہ کا درمیان۔
 التَّهَامَةُ: التَّهَامُ كاسم مرۃ۔ شیر۔
 التَّهْمِيُّ: حریس۔ شیر کی دھاڑ۔ ہاتھ کی چکھاڑ۔
 التَّهْمِيُّ مِنَ الْإِبِلِ: ڈانٹ پر مطیع ہونے والی اونٹنی۔ ج۔ تَهْمِيهِمْ۔
 التَّهْمُومُ: مہ۔ حریس۔ مشتاق و فریفتہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَتَّهْمُومٌ بِالْمَالِ" وہ مال کا حریس ہے یہ نہیں ہوتا۔
 تَهْمَةٌ تَهْمَةٌ عَنِ الشَّيْءِ: روکنا۔ ڈانٹنا۔
 تَهْمَةٌ: تَهْمَةٌ۔
 تَهْمَةٌ تَهْمَةٌ تَهْمًا: ایک لفظ ہے تَهْمَةٌ تَهْمَةٌ تَهْمًا تَهْمًا بآی میں۔
 تَهْمَةٌ تَهْمَةٌ تَهْمًا عَنِ كَذَا: ڈانٹنا۔ منع کرنا۔
 صفت مذکر ناہ۔ صفت مؤنث ناہیۃ اور جس سے منع کریں اس کو مَتَّهْمِيٌّ عَنْهُ کہتے ہیں اور اسم التَّهْمِيَّةُ تَهْمِيٌّ اللَّهُ عَنِ كَذَا: حرام کرنا اور کہا جاتا ہے "هُوَ زَجَلٌ تَهْمًا مِنَ زَجَلٍ" یہ ایسا شخص ہے جس نے تم کو درد سے محض کے طلب کرنے سے منع کر دیا ہے اور تم کہتے ہو "ہی امرأۃ تَهْمٌ مِنَ امْرَأَةٍ" وَهَمَّا زَجَلَانِ تَهْمًا مِنَ زَجَلَيْنِ وَهَمَّ جَالٌ تَهْمًا مِنَ زَجَالٍ"۔
 تَهْمِيٌّ وَتَهْمِيٌّ إِلَيْهِ الْخَبِيرُ: بیچنا۔
 تَهْمِيٌّ تَهْمِيٌّ نَهْمِيٌّ عَنِ الْحَاجَةِ: چھوڑ دینا۔
 (کاسیاب ہو یا ناکاسیاب)
 تَهْمِيٌّ تَهْمِيٌّ تَهْمًا: کامل الحصل ہونا۔
 تَهْمًا تَهْمِيَّةً: منع کرنا (تشدید مبالغہ کے لیے ہے)

تَهْمِيٌّ الشَّيْءِ: انتہا کو پہنچنا — إِلَيْهِ الْخَبِيرُ: پہنچنا۔
 أَنْهَى إِلَيْهِ الشَّيْءِ: پہنچنا — الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ: اطلاع دینا۔ کہا جاتا ہے "ظَلَبَ حَاجَةً حَتَّى أَنْهَى عَنْهَا" اس نے حاجت طلب کی اور بغیر کاسیابی و عدم کاسیابی ترک کر دی۔ انہی الرَّجُلُ مِنَ اللَّحْمِ: اکتفا کرنا اور آسودہ ہونا۔
 تَنَاهَى تَنَاهِيًا عَنِ الشَّيْءِ: روکنا — الْقَوْمُ عَنِ الْمُشْكِرِ: بعض کا بعض کو منع کرنا — الشَّيْءِ: انتہا کو پہنچنا — الْمَاءَ: پانی کا تاب میں ٹھہرنا — تَنَاهَى الْخَبِيرُ: بیچنا۔
 التَّنْهَى إِلَيْهِ الشَّيْءِ: انتہا کو پہنچنا — عَنِ الشَّيْءِ: روکنا — إِلَيْكَ الْمَطْلُ أَوْ الْخَبِيرُ: پہنچنا — يُفْلَانِي إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا: پہنچنا۔
 اسْتَنْهَاهُ اسْتِنْهَاءً: کسی سے کہنا کہ رک جاؤ۔ وَاسْتَنْهَيْتُ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ: میں نے فُلَان سے کہا کہ فُلَان سے باز رہو۔
 التَّاهِيُ: فا۔ ج۔ تَهْمَةٌ: علم سیر۔ سیراب اور کہا جاتا ہے "تَاهِيكَ بَزِيدٌ فَارِسًا" زید تمہارے لیے کافی شہسوار ہے اور یہ مقام تعجب و استظلام میں بولا جاتا ہے۔ متصور یہ ہے کہ وہ تمہارے مطلوب کی انتہا سے غیر کے طلب کرنے سے مانع ہے اور عرب کا قول "هَذَا زَجَلٌ تَاهِيكَ مِنْ زَجَلٍ" (یہ شخص تمہارے لیے فلاں شخص سے کافی ہے) کلمہ ہے جو مقام مدح میں بطور تعجب کے بولا جاتا ہے پھر کثرت استعمال سے ہر تعجب میں بولا جائے لگا اور چونکہ یہ اسم فاعل ہے اس لیے مؤنث اور تشبیہ اور جمع ساری صورتوں میں مستعمل ہے۔ تم کو گے "هَذِهِ امْرَأَةٌ تَاهِيَتُكَ مِنْ امْرَأَةٍ وَعَلَى هَذَا الْفَيْتَاسِ" اور کہا جاتا ہے "فُلَانٌ مَالَةٌ تَاهِيَةٌ" فلاں کیلئے عقل نہیں جو اس کو بھیجے سے روکے "وَمَا تَهْمَةٌ عَنَّا تَاهِيَةٌ" اس کو ہم سے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ ج۔ تَوَاهِي۔ اور کہا جاتا ہے "مَا يَنْظُرُ فِي أَوْامِرِ اللَّهِ وَتَوَاهِيهِ" وہ اللہ تعالیٰ کے ادا مروواہی کی رعایت نہیں کرتا۔
 التَّهْيَاءُ: چیز کا آخری مرتبہ — مِنَ التَّهْيَاءِ:

خیر ہوں یا شر تو ایب الرحیۃ: بل اور سڑک وغیرہ کی درستی کیلئے شای عکس۔ المحضی الثابۃ: روزانہ کا شمار۔

البنیۃ: مہ۔ قائم مقامی۔ باری۔ کہا جاتا ہے "جاءت بنیۃ نوح" تمہاری باری آئی۔

القوب: مہ۔ نائب کی جگہ۔ ایک دن رات کا سفر۔ نزدیکی۔ قوت۔

القوب: حبیبوں کا ایک گروہ۔ نوبہ کا رہنے والا۔ واحد نوبی۔ شہد کی کہی۔ واحد الثائب۔

النوبۃ: مہ۔ فرصت۔ باری۔ دولت۔ لوگوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے "جاءت نوبۃ نوح" تمہاری باری آئی۔ نوبۃ: النوبۃ عند الأطلیاء: بخار شروع ہونے کا وقت۔

النوبۃ: حادثہ۔ ممیبت۔ ج۔ نوب۔ نایبۃ أمموا: إنشاء کا اسم۔ نوبہ کے رہنے والے صید (مصر) کے جنوب میں ایک صوبہ۔

المناب: مہ۔ کہا جاتا ہے "ناب مناب القاضی" وہ قاضی کے قائم مقام ہوا۔ پانی کی طرف راستہ۔

المنیب: نا۔ بکثرت بارش۔ عمدہ بہار۔ نأت ینوٹ نوناً: کمزوری کی وجہ سے جھک پڑا۔

النوی: کشتی بان۔ جہاز راں۔ ج۔ نواتی اور بقول بعض مرہب ہے۔

ناج ینوح نوحاً: ریا کاری کرنا۔ فریب دینا۔ النوحۃ: ناج کا اسم۔ گولاج۔ نوح۔

ناحت تنوح نوحاً ونوحاً: نیناخا و نیناخۃ و متاخا المزمۃ و علی المیت مرہ پر

واوٹا کرنا۔ اسم النیناخۃ — النخامۃ: کوکو کرنا۔ صفت نایبۃ و نوحۃ۔

ناوۃ مناورۃ: مقابلہ کرنا۔ تنوح تنوحاً الشئی: جھومنا۔

تناوح تناوۃ الخبیلان: دو پہاڑوں کا باہم مقابل ہونا۔ تناوحت الریاح: ہواؤں کا تیز چلنا۔ کبھی پروانی کبھی شمالی کبھی جنوبی ہوا کا چلنا۔

استناحت استناحت المزمۃ: نوح کرنا۔ داوٹا کرنا۔ استناحت الذنوب: مجھڑے کا جھومنا۔

الرجل: رو کر دوسرے کو رلانا — فلاناً:

زلانا۔

الثابۃ: اسم فاعل مؤنث۔ ج۔ نوح و انوح و نوح و نواح و نایحات۔

النوح: مہ۔ اکٹھی ہو کر نوح کرنے والی عورتیں۔ کہا جاتا ہے "یساءنوح" بمعنی نواح۔

النوحۃ: اسم مرۃ۔ میت پر بین۔ قوت۔ النواح: اسم مبالغہ۔ مؤنث نوحۃ: قمری کی مانند ایک پرندہ۔

المناخۃ: نوح کی مجلس۔ نوح کا اسم۔ کہا جاتا ہے "مکنا فی مناخۃ فلان" ہم فلاں کے اوپر بین کرنے میں تھے۔ ج۔ مناخات و مناوح۔

المناخۃ: اکٹھی ہو کر نوح کرنے والی عورتیں۔ نوح تنوینھا اللہ الأرض ظلۃ لیماء:

ہمارا کرنا اور برواشت کرنے کی طاقت دینا۔ اناخ اناخۃ الجمل: اونٹ کو بٹھانا۔ کہا جاتا ہے "انخت البعیر فبک و تنوح و استناخ" میں نے اونٹ کو بٹھایا وہ بیٹھ گیا۔ اور ناخ اور اناخ نہیں بولا جاتا — فلاناً المکان: اقامت کرنا۔

التیلاؤ الذل بفلان: نازل ہونا۔ اناخ بہ الحجاجۃ: نازل کرنا۔

استناحت استناحت الجمل: اونٹ کا بیٹھنا۔ الثابۃ: دور کی زمین۔

المناخ: اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ۔ اقامت گاہ۔ غیر پر بندیدہ جگہ کیلئے کہا جاتا ہے "هذا مناخ شوی"۔

المنیخ: فاشیر۔ ناد ینوڈ نوڈاً و نواداً و نوڈاناً: نیند سے جھومنا۔

تنوڈ تنوڈاً الغضن: شئی کا بٹھانا۔ نوڈل نوڈلۃ الرجل: بڑھاپے کی وجہ سے کاٹھنا۔

التوکل: پستان۔ المتوکل: بڑھاپے کی وجہ سے کاٹھنے والا بڑھا۔

کما جاتا ہے "مشی الرجل منوڈلاً" مرد بدن چھوڑ کر چلا۔

نازینور نوراً و نینازاً: روشن ہونا — البعیر: اونٹ پر داغ لگانا — القوم: ٹکست کھانا —

التاز من بعید: آگ دور سے دیکھنا۔ (نازب

المزمۃ نوراً و نوازاً و نوازاً: تمت سے بچنا۔ شک و شبہ سے دور ہونا — الفینۃ: قبتہ کا داغ ہونا۔ پھیلنا۔ صفت نایبۃ۔

نور تنویراً: الشئی: روشن ہونا — المصباح: چراغ روشن کرنا — علی فلان: مشتبہ کرنا — القم: سچھل بیٹھنا — الضنح: روشن چمکانا — الشجر: کلی ٹکانا —

یفلان: روشنی دکھانا — الزنح: پکانا — المزمۃ: تمت سے بچنا۔ شک و شبہ سے دور رکھنا۔

ناوڑۃ مناورۃ: باہم گالی گلوچ کرنا۔ اناز انازۃ الشئی: روشن ہونا۔ خوبصورت ہونا۔ ظاہر ہونا — البینت: روشن کرنا —

المسائلۃ: واضح کرنا — اللہ یزہانہ: حجت کی تلقین کرنا — الشجر: کلی ٹکانا۔

النور انواراً: الشئی: ظاہر ہونا۔ تنوڑ تنوڑاً: المکان: روشن ہونا —

الزجل: بال دور کرنے کیلئے پاؤڑ استعمال کرنا۔ القوم: ٹکست کھانا — التاز من بعید: دور سے دیکھنا — الزجل: کسی شخص کو آگ کے پاس ایسی جگہ سے دیکھنا کہ وہ اس کو نہ دیکھ رہا ہو۔

انفار انفازاً و انفور انفازاً: بال اڑانے کا پاؤڑ استعمال کرنا۔

استنار استنارۃ: البینت: روشن ہونا — یہ: کسی سے روشنی کی مدد مانگنا — علیہ: فتح مند ہونا۔ غالب ہونا — المزمۃ: تمت سے بچنا۔ شک و شبہ سے دور رکھنا۔

الثابۃ: اسم فاعل مؤنث۔ عداوت۔ بغض کینہ۔ ج۔ نواتی۔

التوڑ و التوڑ: کامل۔ ائمہ (سرمد کا چچری) مانند کلگری جس کو باریک ہیں کر موڑے پر لگاتے ہیں۔ شک و شبہ سے دور رہنے والی عورت۔ گائے جو سانڈ سے علیحدہ رہے۔ ج۔ نوڑ۔

التوار: مہ۔ شک و شبہ سے دور رہنے والی عورت۔ گائے جو سانڈ سے علیحدہ رہے۔ ج۔ نوڑ۔

التوار: شک و شبہ سے دوری۔ یاد دوری خواہ کسی چیز سے ہو۔

التار: آگ۔ کلمہ مؤنث ہے اور کبھی مذکر

استعمال کیا جاتا ہے۔ تصحیح نورۃ ج انور و
نیوان و نیترۃ۔ النار۔ داغ۔ رائے۔ اور نار سے
جنم کا کنیہ کیا جاتا ہے جبیل النار۔ کہ آتش
نشان بنو النار۔ محتار و ضنان و ثوب تین شاعر
جو عربین ثعلبہ کے لڑکے تھے اور جو بدت اشعار
کی بنا پر بنو النار کہلاتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے
”أَوْفَلَد نَارِ الْحَزْبِ“ اس نے لڑائی کی آگ
بمزدگی ”وَلَا تَسْتَفِي بِنَارِ فَلَانٍ“ فلاں سے
مشورہ مت لو۔ ”لَا تَفْرَأْ عَى نَارِ هُمَا“ وہ دونوں
اکٹھے نہیں ہوتے۔ اس حیثیت سے کہ ایک کی
آگ دوسرے کی آگ کے مقابل ہو۔ ”نار
القہویل“ زمانہ جاہلیت میں عرب کا طریقہ تھا کہ
تحالف کے وقت آگ روشن کرتے تھے اور اس
میں نمک ڈالتے تھے جب وہ چمٹا تھا تو اس سے
حلف کی تاکید سمجھتے تھے۔ ”نار القوی“ سمائی کی
آگ۔ عادت تھی کہ بلند جگہ پر رات میں آگ
روشن کر دیا کرتے تھے تاکہ بھولا بھسکا مسافراں
کو دیکھ کر آجائے اور جتنی ہی بلندی پر یہ آگ
ہوتی تھی اتنی ہی باعث فخر تھی ”نار الانذار“
اعلان جنگ یا مدافعت کی آگ اس طرح پر کہ
جب کسی قوم سے لڑنے کا ارادہ یا کسی قوم کے
حملہ کا خوف کرتے تھے تو آگ روشن کر دیا کرتے
تھے اور لوگ اسے دیکھ کر جمع ہو جایا کرتے تھے۔
”نار الانسکتار“ اظہار زیادتی کی آگ۔ عرب
جب کسی قوم سے مقابلہ کیلئے جاتے تھے اور کسی
مقام پر پڑاؤ ڈالتے تھے تو بہت آگ جلاتے تھے
اور بہت سے جانور ذبح کرتے تھے تاکہ کوئی آگ
اور ذبح کی کمی سے قلت تعداد پر استدلال نہ
کرے۔
التور۔ مہ۔ کلی یا سفید کلی۔ واحد نورۃ۔ ج
انوار۔
التور۔ روشنی۔ اور بقل بعض نور اس کیفیت
کا نام ہے جس کو قوت باصرہ اولاد اور آگ کرتی
ہے۔ اور اسی کے واسطے سے مہرات کا دراک
کرتی ہے ج انوار و نیتران۔
التور۔ وہ جو چیزوں کو ظاہر کر دے۔ نباتات کی
خوشامی اور لبائی۔ ج نورۃ۔ داغ۔
التور و التورۃ۔ ایک خانہ بدوش قوم جو ایشیا

یورپ، افریقہ اور امریکہ میں پائی جاتی ہے واحد
نورج۔ التوری۔ اچکا۔
التورۃ۔ داغ۔ چونہ کا پتھر۔ پال دور کرنے کا
پاؤڈر۔ جادو کرنی۔
التور۔ بہت روشن۔
التور۔ کلی۔ واحد نورۃ۔ ج انوار و
التور۔ روشن کرنے والا۔
التورۃ۔ التور کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے ”بغاة اللہ
نیترۃ“ اللہ کی مار اس پر ایسی پڑے جو کسی سے
پوشیدہ نہ رہے۔
الانور۔ اسم تفضیل۔ ظاہر خوشنما۔ کہا جاتا ہے
”هَذَا النُّورُ مِنْ ذَلِكَ“ یہ اس سے واضح تر ہے۔
المتار۔ روشنی کی جگہ۔ علامت جو راستے کی
راہنمائی کیلئے لگائی جائے۔ دو چیزوں کے درمیان
کے حدود۔ ذو المتار۔ ابہ تیج بن الراسخ کا لقب
کہ اس نے منارہ نصب کرنے کی ابتدا کی تھی۔
المیتر۔ فا۔ خوش رنگ۔ چمکدار۔ کہا جاتا ہے
”بغاة اللہ ذات منور“ اللہ کی مار اس پر ایسی
پڑے جو روشن ہو اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے۔
المتاؤرۃ۔ روشنی کی جگہ۔ روشنی کا منارہ۔ آذان
دینے کا منارہ۔ ج متاؤر و متاؤر۔
نورج نورجۃ۔ آنے جانے میں مختلف۔ چمک
خوری کے لیے چمک پھرتا۔
التورج۔ بل کی پھالی۔ غلہ گاہنے کا ایک آلہ۔
خواہ لکڑی کا ہو یا لوہے کا۔
التوروزو التوروز۔ عند الفوس۔ شمس سال کا
پہلا دن۔ خوشی کا دن۔
التورس۔ کبوتر کے برابر اس سے کچھ بڑا ایک
آبی پرندہ جو فضا میں اڑتا رہتا ہے پھر یکبارگی پانی
میں غوطہ لگاتا ہے اور سوائے مچھلی کے کچھ نہیں
کھاتا اور اس کو زمج الماء بھی کہتے ہیں۔
تورۃ تنویرا۔ کم کرتا۔
ناس بنو نوح نوحا الیل۔ اونٹوں کو ہلکنا۔
نوحا و نوحا نوحا الشی۔ جھولنا۔ کہا جاتا ہے ”لہ
ضفیتر تان نوحا سان علی عاتقہ“ اس کے دو گیسو
ہیں جو اس کے کندھوں پر لٹک رہے ہیں۔
نوح بالمکان تنویرا۔ اقامت کرتا۔
اناس اناسۃ الشی۔ ہلاتا۔

تَنَوُّسُ الْفُغْسُ: منی کا ہوا کے چلنے سے ہلنا۔
التاؤوس والتاؤوس۔ لہرائیوں کا قبرستان
(دخیل) ج تاؤوس۔ اس تنگی تابوت کو بھی کہتے
ہیں جس میں لاش رکھی جائے۔
نواش الغنکبوت: مگزی کا جلا۔ نواش
الدخان: دھوئیں کا جلا۔
التاس۔ اسم ہے جو ربط و قوم کی مانند جمع کے
لیے وضع کیا گیا ہے۔ واحد انسان ہے اور تصغیر
نویس۔
التواس۔ لکھنے والا۔
التواسات۔ چوٹیاں۔
الموتوس۔ کھجور جس کا کنارہ کالا ہو گیا ہو۔
ناش بنو نوح نوحا الشی: پکڑنا۔ دھوڑنا۔
فلان: چلنا۔ البعیر: اٹھنے میں جلدی کرتا۔
فلانا: سرو اور اڑھی پکڑنا۔ زینداخیرا:
بھلائی پہنچانا۔ ناش الشی بالشی: چمٹنا۔ نشٹ
من العظام: حاصل کرتا۔
ناوشوہم متاوشۃ فی القتال: باہم حملہ
کرتا۔ ناوش فلان الشی: ہلاتا۔
تناوش الشی: پکڑنا۔ تناوشوہم بالرماح نیزہ
بازی کرتا۔
انناشۃ انناشاشا: پکڑنا۔ نکالنا۔ کہا جاتا ہے
”انناشۃ من الہلکۃ“ اس نے اس کو ہلاکت
سے بچالیا۔
التوش۔ قوی۔ زجل نوش: سخت پکڑنے
والا مرد۔
ناش بنو نوح نوحا و متاوشا و مینبصا عن
قربہ: مقابل سے بھاگنا۔ جدا ہونا۔ فلانا:
سبقت لے جانا۔ الیہ: اٹھنا۔ الشی:
کھینچنا۔ الیخرکۃ: تیار ہونا۔ عنہ: پیچھے
ہٹنا۔ متاوشا و نوحا و نوحا و نوحا و نوحا و
نوحا و نوحا: الرجُل: حرکت کرتا۔ کہا جاتا
ہے ”ما یغدر علی أن یثووس“ وہ حرکت کرنے
پر قادر نہیں۔
ناوشۃ متاوشۃ: باہم حملہ کرتا۔
اناشۃ اناشۃ: ارادہ کرتا۔ کہا جاتا ہے
”انصت أن اأخذ منہ شیئا“ میں نے ارادہ کیا
کہ اس سے کچھ لوں۔

التَّوَعَّانِ - شام کا بلنا۔

التَّوَعُّوعُ - ناع کا اسم مرہ۔ تازہ میوہ۔

مَكَانٌ مُتَّوَعٌّ - ذور کی جگہ۔

المِنَوَاعُ - طرز۔ طریقہ۔

نَافٌ يَتَوَفُّ نَوْفًا - الشَّيْءُ: بلند ہونا۔ اعلیٰ

الشَّيْءُ: نمایاں ہونا۔ البَعِيْرُ: اونٹ کا لبا اور

بلند ہونا۔ الصَّبِيْبُ مِنَ التَّدْيِ: سچے کا پستان

سے چونا۔

تَتَيْفٌ تَتَيْفًا عَلٰی كَذَا: زائد ہونا۔ کہا جاتا ہے

”تَيْفٌ الْعَدُوِّ عَلٰی مَا تَقُوْلُ“ جو تم کہہ رہے ہو

اس سے عدد زائد ہے۔

أَنَافٌ إِنَافَةٌ عَلٰی الشَّيْءِ: نمایاں ہونا۔ طویل

ہونا۔ بلند ہونا۔ کہا جاتا ہے ”أَنَافُ الْجَبَلِ

وَأَنَافُ الْبِنَاءِ“: پہاڑ بلند ہے۔ عمارت بلند ہے

— عَلٰی كَذَا: زائد ہونا۔ کہا جاتا ہے ”أَنَافَتِ

الدَّرَاهِمِ عَلٰی الْمِائَةِ“ دراهم سو سے زائد

ہیں۔

التَّيَافُ مِنَ الْجَمَالِ او التَّنُوقُ: بلند اونٹ یا

اوشیاں۔ کہا جاتا ہے ”جَمَلٌ تَيَافٌ وَنَاقَةٌ

تَيَافٌ“ ”امْرَأَةٌ تَيَافٌ“ پورے قد کی

خوبصورت عورت۔ فَلَائَةُ تَيَافٍ: طویل عریض

چابان۔

التَّنُوفُ - مع۔ بلند کوہان۔ آواز۔ دامن کا چملا

حصہ۔ ج. اَنُوفٍ۔

التَّيْفُ وَالتَّيْفُ - زایدی۔ کہا جاتا ہے عَشْرَةٌ وَ

تَيْفٌ او وَتَيْفٌ ”دس اور دس سے زائد دس

ہیں تیس جیسی دہائیوں سے چھٹی زیادتی ہو اس کو

تَيْفٌ کہتے ہیں یہاں تک کہ دوسری دہائی آئے

اور لفظ نطف کا استعمال انہیں جیسی دہائیوں سے

زیادتی کیلئے ہوتا ہے۔ اسی لیے عَشْرَةٌ وَتَيْفٌ وَ

مِائَةٌ وَتَيْفٌ وَأَلْفٌ وَتَيْفٌ تو بولا جاتا ہے مگر

خَمْسَةٌ عَشْرٌ وَتَيْفٌ نہیں کہا جاتا۔

التَّيْفُ - فعل واحسان اور کہا جاتا ہے ”هُوَ

تَيْفٌ عَلَيْهِ“ وہ اس سے زائد ہے۔ کہا جاتا ہے

”جَبَلٌ عَلِيٌّ الْمُتَافِ“ پہاڑ جس کے چڑھنے کی

جگہ بلند ہو۔

المُنَيْفُ - ج. جَبَلٌ مُنَيْفٌ: بلند پہاڑ اور بطور

مجاز کے کہا جاتا ہے ”لَهُ عَجْرٌ مُنَيْفٌ“ اس کی عزت

بلند ہے۔ امْرَأَةٌ مُنَيْفَةٌ: پورے قد کی خوبصورت

عورت۔

نَاقٌ يَتَنُوقُ نَوْفًا: گوشت سے چمٹی اٹارنا۔

تَوَّقٌ تَتَوَقُّوا الْجَمَلَ: اونٹ کو سدھانا۔

التَّخَلُّ: مادہ گھجور میں زنگجور کے پھول ڈالنا۔

الشَّيْءُ: ترتیب سے رکھنا۔

انقَ اِنْتِاقًا وَزَيْفًا الشَّيْءُ فَلَانًا: پسند آنا (آنق

آنق کا مقلوب ہے اور زَيْفًا مصدر غیر قیاسی ہے)

تَتَوَقُّ تَتَوَقُّوا وَتَتَيْقُ تَتَيْفًا وَانْتِاقًا اِنْتِاقًا فِی

مَنْتَسِبِهِ وَمَقْعَبِهِ وَامْوَهِ: کھانے پینے اور

دوسرے امور میں عمدگی اختیار کرنا (مانند تَاتَّقُ

کے) تَتَوَقُّ بِهِ: مہربانی برتا۔ انْتِاقَ الشَّيْءِ: چننا۔

اسْتَنْوَقَ اسْتَنْوَقًا الْجَمَلَ: اونٹنی کے مشابہ

ہونا اور اسی سے شل ہے ”اسْتَنْوَقَ الْجَمَلَ“

اس موقع پر بولا جاتا ہے جبکہ کوئی شخص بات کرتا

کرتا ایک بات میں بغیر کسی جوڑے کے دوسری بات طا

دے۔

التَّنُوقُ: تھوڑی سُرخی کے ساتھ ملی ہوئی

سپیدی۔

التَّيْقُ: پہاڑ کی بلند جگہ۔ ج. نَيْقًا وَانْتِاقًا وَ

تَيْقُ:

التَّاقَةُ: اونٹنی ج. نَاقٌ وَنُوقٌ وَانُوقٌ وَ

اُنُوقٌ وَانْتِاقٌ وَنِيقًا وَنَاقَاتٌ وَانُوقٌ وَج. اِنْتِاقٌ

وِنِيقَاتٌ۔

التَّاقَةُ: ایک قسم کی پھنسی جو ہاتھ میں تکتی ہے۔

ستارے جو اونٹنی کے شکل کے ہوتے ہیں۔

التَّوْفَهُ: صداقت۔ مہارت۔ ہوشیاری۔

التَّيْفَةُ: اسم ہے تَتَوَقُّوْا۔

التَّوَقُّ: ککڑی کا پانالہ۔ ج. نَاقَاتٌ (دخیل)

التَّوَقُّ: وہ شخص جو امور کو ہوشیاری سے انجام

دے۔

التَّيْقُ: کھانے پینے اور دیگر امور میں عمدگی

اختیار کرنے والا۔

المُنُوقُ: سدھانے والا اونٹ جو اونٹنی کی مانند رہتا ہے

گیا ہو۔ مِنَ التَّخَلُّ: زنگجور کا پھول ڈالنا ہوا۔

نَاقَةٌ مُتَوَقَّةٌ: سدھائی ہوئی اونٹنی۔

نُوكٌ يَتَنُوكُ نُوَاكًا وَنُوَاكًا وَنُوَاكَةً

بیوقوف ہونا۔

اَنُوَاكَةٌ اَنُوَاكًا: بیوقوف پانا یا بیوقوف سمجھنا۔

اسْتَنْوَكَ اسْتَنْوَاكًا: بیوقوف ہونا۔

فَلَانًا: بیوقوف سمجھنا۔ کہا جاتا ہے ”مَا اَنُوَاكَةٌ“

وہ کیسا بیوقوف ہے (اور اَنُوَاكٌ بِهِ نہیں کہا جاتا

حالانکہ یہ قیاس کے مطابق ہے)

الْاَنُوَاكُ: بیوقوف۔ بہت زیادہ بیوقوف عاجز و

جاہل۔ بول چال میں عاجز نُوَاكِيٌّ وَ نُوَاكٌ

مُوَاكٌ نُوَاكًا ج. نُوَاكٌ۔

المُسْتَنْوَكُ: بیوقوف۔

نَالٌ يَتَنُوَلُّ نَوَالًا وَنَوَالًا: فَلَانًا الْعَطِيَّةُ وَ

بِالْعَطِيَّةِ وَنَالٌ لَهَا الْعَطِيَّةُ وَبِالْعَطِيَّةِ: رہنا۔ جیسے

”نَالِي بِالْخَيْرِ“ اس نے مجھ کو خیر پہنچائی ”وَنَالٌ

لَهُ بِشَيْءٍ“ بخشش کی۔ اور کہا جاتا ہے ”نَالٌ لَهَا اَنْ

يَفْعَلَ كَذَا“ اس کے لیے ایسا کرنے کا وقت آیا۔

نَوَلَةٌ تَتَوَالِدُ عَلَيْهِ: رہنا۔ نَوَلَةٌ مَعْرُوفَةٌ: بھلائی

پہنچانا۔ تَتَوَالٌ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ: رہنا۔

نَاوَلَةٌ مُتَنَاوَلَةٌ الشَّيْءِ: رہنا یا ہاتھ بڑھانے دینا۔

اَنَالَةٌ اِنَاةٌ الشَّيْءِ وَبِالشَّيْءِ: رہنا۔ کہا جاتا ہے

”اَنَالِي بِالْخَيْرِ“ اس نے مجھے بھلائی پہنچائی۔ اَنَالٌ

فَلَانٌ بِاللَّهِ: قسم کھانا۔ کہا جاتا ہے مَا نَوَلْتُهُ وَهُ

کس قدر فیاض ہے۔

تَتَوَالُ الشَّيْءُ: لیا۔ — عَلَيْنَا فَلَانٌ بِشَيْءٍ

يَسْبِرُ: تھوڑا سا رہنا۔

تَتَنَاوَلُ الشَّيْءُ: لیا۔ — مِنْ يَدِهِ شَيْئًا: لیا۔

پکڑنا۔ کہا جاتا ہے ”تَتَنَاوَلْتُ بِنَاكِ الرَّكَابِ مَكَانًا

كَذَا“ سواریوں نے ہم کو فلاں جگہ پہنچادیا۔

التَّائِلُ - ج. مَصْدَرٌ - عطیہ۔ بھلائی۔

التَّائِلَةُ: التَّائِلُ كَامُوْنَتٌ - قریش کے ایک بہت

کٹام۔

التَّوَالٌ - داد و دہش۔ حصہ۔ دور سخی۔ اور کہا جاتا

ہے ”تَوَالِكُ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا“ تمہارے لیے

مناسب ہے کہ ایسا کرو۔

التَّالٌ - داد و دہش۔ ج. زَجَلٌ نَالٌ: سخی مرویا بہت

بخشش والا۔ اور کہا جاتا ہے: وَزَجَلَانٍ نَالَانٍ وَ

رِجَالٌ اَتَوَالٌ۔

التَّوَالٌ - مع۔ بننے والی وادی۔ بننے والے کی کپڑا

لپٹنے کی ککڑی۔ اور کہا جاتا ہے ”تَوَالِكُ اَنْ تَفْعَلَ

كَذَا“ تمہارے لیے مناسب ہے کہ ایسا کرو۔

کے عدد ۵۰ ہیں اور حروف زواک میں سے ہیں
تُونَات وَاَتْوَان۔

التون۔ دوات۔ مچھلی۔ ج زینتان وَاَتْوَان۔ کوار
کی دھار۔ کوار۔ ذُو التُّون لقب یونس علی نبیہ
علیہ الصلوٰۃ والسلام کا۔ عرب کی ایک کوار کا نام۔
ذُو التُّونین۔ معقل بن خویلد کی کوار کا نام۔
التُّونۃ۔ مچھلی۔ عمدہ بات۔ چھوٹے بچے کی
ٹھوڑی کا کراہ۔ ج تُونَات۔

نَاهُ يَتَوَهَّؤْنَ نَوَاهَا التَّيَابُ وَغَيْبُهُ : بلند ہونا۔
نَاهَتْ الْهَامَةُ : الو کا سر اٹھا کے چیخنا۔ نَهَتْ
بِالشَّىءِ : اُڑنا۔

نَاهَتْ تَوَهَّؤْهُ وَتَوَهَّؤْهُ نَفْسُهُ عَنِ الشَّيْءِ :
رک جانا۔ انکار کر کے چھوڑنا۔

نَوَّهَتْ تَوَهَّؤْهُ الشَّيْءُ : بلند کرنا — يَفْلَآن : بلند
آواز سے پکارنا۔ کسی کا نام بلند کرنا۔ تعریف کرنا۔
تعظیم کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "تَوَهَّتْ بِالْحَدِيثِ"
میں نے بلند آواز سے بات کی۔ نَوَّهَ يَسْمَعُهُ : نام
لے کر بلانا۔ پکارنا۔

نَوَّهَتْ تَوَهَّؤْهُ : بلند ہونا۔

التَّوَهُّوهُ التَّوَهُهُ : کسی چیز سے رکنا۔
التَّوَهُهُ : ناه کا اسم مرہ۔ خوراک دن رات میں
صرف ایک مرتبہ۔

التَّوَهُهُ : بدن کی حالت۔

التَّوَاهَةُ : نوحہ کرنے والی عورت۔ بین کرنے
والی عورت۔

التَّوَهُهُ : بین کرنے والی عورتیں کہا جاتا ہے
"هُوَ آتَوَهُ مِنْ فُلَانٍ" وہ فلاں سے زیادہ شریف
ہے۔

تَوَى الشَّيْءُ يَتَوَىهِ تَوَاؤُفٌ وَيَتَوَىهِ : ارادہ کرنا۔
تَوَى الْقَوْمَ مَتَوَى بِكَذَا : قصد کرنا۔ ارادہ کرنا
— اللَّهُ فُلَانًا : حفاظت کرنا۔ مسافر سے کہا جاتا

ہے "تَوَاكَ اللَّهُ" یعنی اللہ تمہاری حفاظت کرے
اور تمہارا سفر میں ساتھی ہو۔ وَتَوَاكَ اللَّهُ
بِالْحَيْرِ : اللہ تم کو بھلائی پہنچائے (تَوَى)

فُلَانٌ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ : ایک جگہ سے
دوسری جگہ منتقل ہونا — التَّوَاهُ : مچھلی پھینکا
— يَتَوَى وَتَوَى : المُسَافِرُ : دور ہونا (تَوَى)
تَوَاهُ وَتَوَاهُ : التَّافَهُ : سولی ہونا۔ مسفت بناویقو

اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کرنا — إِلَيْهِ : سونے
والے کی طرح مطمئن ہونا — إِلَى الشَّيْءِ :
مانوس ہونا۔

التَّائِبُ : سونے والا۔ یعنی والا۔ ج تَتَابُ وَتَوَابُ
لَيْسَ وَيَتَابُ وَتَوَابُ وَتَوَابُ : اور کہا گیا ہے کہ
تَوَابُ اسم جمع ہے۔ اور کہا جاتا ہے "لَيْلٌ تَائِبٌ" گمراہ
نیز والی رات۔

التَّائِبَةُ : التَّائِبُ کا مؤنث۔ ج تَوَابُ : موت۔
سانپ۔

التَّوْؤْمُ : بت سونے والا۔ کہا جاتا ہے "وَجُلٌ"
تَوْؤْمٌ وَامْرَأَةٌ تَوْؤْمٌ"۔
التَّوْؤْمُ : نیند۔ نیند کی بیماری۔

التَّوْمُ : نیند۔ تائیم کی جمع یا اسم جمع جیسا کہ گزر
چکا۔ جُلٌ تَوْمٌ وَتَوْمٌ : بت سونے والا مرہ۔

التَّيْمُ : لباس شب خوابی۔ پوشین اور بعض کے
زردیک سینہ تک کی چھوٹی پوشین۔ کامل نعمت۔ وہ
فخص جس سے اُس حاصل کیا جائے۔ ایک نرم
کائے والا درخت جس کے پتے چھوٹے ہوتے

ہیں اور پتے کے برابر اس کے دانے ہوتے ہیں اور
کھٹے ہوتے ہیں اور جب پک جاتے ہیں تو کالے پڑ
جاتے ہیں اور ٹھٹھے ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے
يَأْتُوهُمَا : یعنی اے بت سونے والے۔ اور یہ ندا

ہی کے لئے خاص ہے۔
التَّوْمَةُ : نام کا اسم مرہ۔ ج تَوَمَاتُ :
التَّيْمَةُ : اسم ہے نام کا۔ کہا جاتا ہے "مَالَةٌ تَيْمَةٌ"
لَيْلَةٌ" اس کے پاس ایک رات کا گزارہ نہیں ہے۔
التَّوْمَةُ : وہ فخص جس کی پرواہ کی جائے۔
التَّوْمَةُ : بت سونے والا۔ غافل۔ گنہگار۔

التَّوِيمُ : غافل۔ گنہگار۔
التَّمَامُ : نیند۔ سونے کی جگہ۔ خواب ج
مَنَامَاتُ :
التَّمَامَةُ : سونے کی جگہ۔ لباس شب خوابی۔ قبر۔
التَّمَامُ وَالتَّمَامَاتُ : پست جگہ جہاں پانی ٹھہر
جائے۔

طَعَامٌ مَتَوَمَةٌ : خواب آور کھانا۔
تَوَّنُ تَوْنًا : حرف نون لکھنا — التَّكَلِيمَةُ : کلمہ پر
توین لگانا۔

التُّونُ : حروف مہانی میں سے ایک حرف جس

"وَمَا تَوَلَّكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لیے
مناسب نہیں کہ اس کو حاصل کرو یا کیا کرو۔

التَّوَلَّى : نال کا اسم مرہ۔ داود و عیسیٰ۔ کہا جاتا ہے
"مَا أَصْبَحْتُ مِنْهُ تَوَلَّى" میں نے اس کا عطیہ
نہیں پایا۔ بوسہ۔
التَّوَلَّى : داود و عیسیٰ۔ عطیہ۔

الْمِتْوَالُ وَالْمِتْوَالُ : بننے والے کی کپڑا پہننے کی
کڑی یا کرگہ۔ ج مِتْوَالٌ : الِمِتْوَالُ : کپڑا بننے
والا۔ اور کہا جاتا ہے "هُم عَلَى مِتْوَالٍ وَاجِدٌ"
وہ سب ایک ہی قسم کی عادت کے ہیں "وَلَا"
أَدْرِي عَلَى أَبِي مِتْوَالٍ هُوَ" میں نہیں جانتا وہ
کس طریقہ پر ہے و "إِفْعَلْ عَلَى هَذَا"
الْمِتْوَالُ : اس طریقہ پر کرو۔ "وَمِتْوَالٌ لَأَلَّا"
تَفْعَلْ كَذَا" تمہارے لیے مناسب ہے کہ ایسا نہ
کرو۔

نَاهَةُ يَتَوَهَّؤْهُ تَوَاهُ : سونے میں غالب ہونا۔ کہا
جاتا ہے "تَوَاهِي فَمَتَّه" اس نے سونے میں
مجھ سے مقابلہ کیا میں غالب رہا۔

نَامَ يَتَوَاهُ وَنَاهَا : اونگھنا یا سوتا۔ مرنا۔ اور
اسم التَّيْمَةُ : نَامَتِ الشُّوْقُ : بازار کا ماند پڑنا
— التَّوَيْحُ : ہوا کا رک جانا — التَّوَارُ : آگ کا
بھجنا۔ نَامَ الْبَحْرُ : سمندر کا ٹھہرنا — العَوْقُ :

رگ کا حرکت نہ کرنا — التَّوَبُ : کپڑا پرانا ہونا
— التَّوَجُّلُ : اللہ کے لیے تواضع و خاکساری کرنا
— إِلَيْهِ : اطمینان کرنا — عَنْ حَاجَتِهِ : غافل
ہونا بے پرواہ ہونا اور کہا جاتا ہے "نَامَ هَمَّهُ" وہ
بے ہمت ہے "وَفُلَانٌ لَا يَتَوَاهُ وَلَا يَتِيمٌ" فلاں نہ
سوتا نہ سونے دیتا ہے۔

تَوَمَةٌ تَتَوَيْمًا : سلاتا۔ تَوَمَ الرَّجُلُ : خوب اچھی
طرح سوتا — الْإِبِلُ : اونٹوں کا مرنا۔
تَوَامَةٌ مَتَوَامَةٌ : سونے میں غالب ہونا۔
أَنَامَهُ إِتَامَةً : سلاتا۔ قتل کرنا۔ کہا جاتا ہے
"طَعَنَتْ فَرَسَيْنِ فَأَنَامَتْهُ" میں نے اپنے ہسر کو
نیز مار کر قتل کر دیا۔ أَنَامَ زَيْدًا : سوتا ہوا پانا۔

تَتَوَامٌ تَتَوَاهُ : اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کرنا۔
نیمہ جاننا — إِلَيْهِ : مطمئن ہونا۔ سکون اختیار
کرنا۔

إِسْتِمَامٌ إِسْتِمَامَةً : الرَّجُلُ : سوتا۔ نیمہ جاننا۔

ناو۔
نَوَى نَوِيَةً حَاجَتُهُ: حاجت پوری کرنا۔ نَوَتْ
النِسْوَةَ: گھمٹی والی ہونا۔ نَوَى فُلَانٌ: گھمٹی
پھینکنا۔ فُلَانًا: کسی کی نیت پر چھوڑنا۔
نَاوَاهُ مَنَاقَاةً: دشمنی کرنا (اس کی اصل ہمزہ
سے ہے)

أَنَوَى إِنْوَاءَ الرَّجُلِ: دور ہونا یا زیادہ سفر
والا ہونا۔ حَاجَتُهُ: حاجت پوری کرنا۔ أَلْوَتْ
النِسْوَةَ: گھمٹی بیٹھا۔ أَنَوَى فُلَانٌ: گھمٹی پھینکنا۔
تَنَوَى تَنَوِيًا الشَّيْءَ: قصد کرنا۔

إِنْوَاءَهُ إِنْوَاءَةً: قصد کرنا۔ کما جاتا ہے "إِنْوَاءَهُ
بِتَوَاتُرِهِ" اس نے اس کی حاجت پوری کر دی
إِنْوَى القَوْمَ: ایک شہر سے دوسرے شہر میں
متقل ہونا۔ القَوْمَ بِمَوْضِعٍ كَذَا: اقامت
کرنا۔ القَوْمَ مِنْوَالًا بِمَكَانٍ كَذَا: قصد کرنا۔
إِسْتَنَوَى اسْتِنَؤَاءَ الرَّجُلِ: گھمٹی پھینکنا۔

النَّوَى: نا۔ وہ شخص جو متقل ہونے کا پتہ
ارادہ کرے۔ اُوْنَى كَأُولَاءِ: کما جاتا ہے "فُلَانٌ
نَاوَى القَوْمَ وَمُنْتَوَاهُمْ" فلاں قوم کا ذی رائے
اور ان کے امور کا مالک ہے۔

النَّوَاءُ: کھجوری گھمٹیوں کا بیج والا۔

النَّوَى: مہ۔ دوری۔ وہ جگہ قریب یا بعید جہاں
کا مسافر ارادہ کرے (اس معنی میں مؤنث ہے)
گھر۔ گھمٹیاں (اس معنی میں مذکر مؤنث دونوں
ہے) کما جاتا ہے "إِسْتَقْرَرْتُ نَوَى القَوْمِ
بِمَوْضِعٍ كَذَا وَكَذَا" (یعنی فلاں جگہ میں قوم
نے اقامت کی)۔

النَّوَى: مہ۔ چربی۔

النَّوَى: موٹاپا۔

النَّوَاءُ: گھمٹی ج نَوَى وَنَوِيَاتُ وَجِجِ النَّوَاءِ وَ
يَوِيٌّ وَنَوِيٌّ۔

النَّوَى: قصد۔ ارادہ۔ دل کا عزم۔ جس کو انسان
موافق سمجھے اس کی طرف اٹھنا۔ امر۔ حاجت۔ کما
جاتا ہے "لِي فَنِي نَيْبِ فُلَانٍ نَيْتَةً" فلاں کے گھر
میں میری ایک ضرورت ہے۔ وہ جگہ قریب یا بعید
جہاں کا مسافر ارادہ کرے۔ کما جاتا ہے "سَقَطَتْ
بِهِمْ نَيْتَةٌ قُدْفٌ" رحلہ بعیدہ نے ان کو دور
پھینک دیا "وَنَوَى نَيْتَةً قُدْفًا" انہوں نے دور کی

جگہ کا ارادہ کیا اور کبھی باع میں تخفیف کی جاتی ہے
کما جاتا ہے نَيْتَةً حَاجَتُهُ۔

النَّوَى: ہم ارادہ ساتھی۔

نَاءٌ يَنْبَغِي نَيْتًا وَنَيْوَةً أَوْ نَيْوَةً اللَّحْمِ وَغَيْرَهُ:
گوشت وغیرہ کا کچا رہنا۔

نَيْتًا تَنْبِيًا الْأَمْرُ: ناقص طور سے کرنا۔

أَنْبَأَ اللَّحْمَ النَّبَاءَ: گوشت کو کچا رکھنا۔

النَّبِيُّ مِنَ اللَّحْمِ: کچا یا نیم پختہ گوشت۔ اور نَبِيٌّ
إِبْدَالٌ وَأَدْعَامٌ سَهِيَ جَائِزٌ بِهِ النَّبِيُّ: خالص
دودھ۔

نَابَةٌ نَبِيْبَةٌ نَبِيْبَادَانَتٌ بِرَارَتَا۔

نَبِيْبَةٌ تَنْبِيْبًا النَّاقَةُ: اُوْنَى کا بوڑھی ہونا۔

نَيْبُ النَّبْتِ: نباتات کی جڑیں چھوٹا۔ فُلَانٌ

الشَّهْمِ: تیر پر دانت مار کر تختی معلوم کرنا اور
دانتوں کا نشان ڈالنا۔ زَيْدٌ: دانت کاٹنا۔ دانت

پینا۔ فُلَانًا: دانت سے کاٹنا۔ کما جاتا ہے

"ظَفَرَ فِيهِ السَّبْعَ وَنَبِيْبٌ" درندہ نے اس کے

اندراخن اور دانت گھسایا۔

نَبِيْبٌ تَنْبِيْبًا النَّبْتِ: جڑیں نکلنا۔ الشَّيْبُ:

بڑھا ہوا ظاہر ہونا۔

النَّابُ: کچلی کا دانت (مؤنث)۔ جِ النَّابِ وَنَبِيْبٌ

وَأَنْبَابُ: النَّابُ: بوڑھی اُوْنَى۔ اور اس کی

تصغیر نَبِيْبٌ۔ جِ أَنْبَابٌ وَنَبِيْبٌ وَنَيْبٌ نَابٌ

القَوْمِ: سردار قوم جِ أَنْبَابُ۔

النَّبِيْبُ: بوڑھی اُوْنَى۔

الْأَنْبَابُ: موٹے موٹے دانتوں والا۔ مؤنث

يَنْبَاعُ جِ نَيْبٌ۔

نَاتٌ يَنْبِئُ نَيْتًا: کمزوری سے ڈگمگاتے ہوئے

چلنا۔

نَاحٌ يَنْبِغُ نَيْبًا وَنَيْبًا نَاحًا الْعَضُنُ: نسی کا جھکنا

(نَيْبًا) الْعَظْمُ: ہڈی کا سخت ہونا۔ مضبوط

ہونا۔

نَبِيْحٌ تَنْبِيْحًا اللُّهُ الْعَظْمَةُ: ہڈی مضبوط کرنا۔

رِيْزَةٌ رِيْزَةً (ضد اد میں سے ہے) کما جاتا ہے مَا

تَنْبِيْحُهُ يَنْبِيْحٌ مِمَّنْ لَمْ يَسْ وَاوَلَا يَنْبِيْحُ
اللُّهُ عَظَامَةُ اللّٰهِ اس کی ہڈیوں کو نہ سخت کرے

اور نہ مضبوط۔

النَّبِيْحُ: سخت۔ کما جاتا ہے "عَظْمٌ نَبِيْحٌ" سخت

ہڈی۔

نَارَ القَوْبِ نَيْبَةً نَيْوَةً نَبِيْبَةً أَوْ أَنْوَاهُ
إِنَاقَةً: کپڑا بنانا۔ منقش کرنا۔

النَّبِيْبُ: فالوگوں کے درمیان فساد ڈالنے والا۔

النَّبِيْبَارُ: کپڑے میں نقش و نگار کرنے والا۔

کپڑے میں گوٹ لگانے والا۔

النَّبِيْبُ: بیلوں کے کندھے پر رکھنے کا جو ارج

أَنْبَارٌ وَنَبِيْبَانٌ: نَبِيْبٌ: نے۔ اکٹھے دھاگے۔

کپڑے کے نقش و نگار۔ کپڑے کا چھوڑنا۔ راستہ کا

کنارہ۔ راستہ کی نمایاں کھالی۔ کما جاتا ہے

"زَجَلٌ ذُو نَبِيْبِيْنٍ" اپنے ساتھی سے رگنی قوت

والا۔ و "حَزْبٌ ذَاتُ نَبِيْبِيْنٍ" سخت جنگ

"وَنَاقَةٌ ذَاتُ نَبِيْبِيْنٍ وَأَنْبَارٌ" بوڑھی اُوْنی

جس میں ابھی جوانی کچھ باقی ہو اور کبھی اس کا

استعمال عورت کے لیے بھی ہوتا ہے۔

النَّبِيْبُ وَالنَّبِيْبَةُ: اسم ہے نَبِيْبِ القَوْبِ۔ كَالنَّبِيْبَةِ:

بنائی کے آلات میں سے ایک آلہ کا نام کہتے ہیں

"مَا أَنْتَ بِسِنَاءَةٍ وَلَا لَحْمَةٍ وَلَا نَبِيْبَةٍ" اس

شخص کے لیے جو نہ نافع ہو نہ نقصان دہ۔ کما جاتا

ہے "هَذَا أَنْبَرٌ مِنْ ذَلِكَ" یہ اس سے واضح تر

ہے۔ کما جاتا ہے "بَيْنَهُمْ مَنَابِيْبَةٌ" ان کے

درمیان فساد ہے۔

النَّبِيْبُ: موٹی کھال۔ نَبِيْبٌ مَنَبِيْبٌ: دوسوٹی کپڑا۔

نَبِيْبٌ: نَبِيْبٌ: چغل خوری کرنا۔ کلام میں

گزر کرنا۔ مَنَبِيْبٌ: التَّوْبِيْحُ النَّبِيْبِيُّ فَوْقَ

الشَّيْءِ: ہوا کا کسی چیز کے اوپر خاک چڑھا دینا اور

دھاری دھاری جھپٹی بنا دینا۔

النَّبِيْبُ: برائی۔ چغل خوری۔ چست و چابک

مرد۔ اور کما جاتا ہے "زَجَلٌ نَبِيْبٌ وَذُو نَبِيْبٍ"

یعنی بدکار مرد۔

نَبِيْبٌ نَبِيْبَةٌ جِ النَّبِيْبِ: چغل خوری کرنا۔

النَّبِيْبُ: چغل خور۔ کپڑے کا نقش و نگار۔ بل

کی پھالی۔ غلہ گانے کا ایک آلہ خواہ کٹری کا ہوا

لوہے کا رُبِيْحٌ نَبِيْبٌ: تیز ہوا۔ اِمْرَأَةٌ نَبِيْبَةٌ:

چالاک و مکار عورت۔ اور کما جاتا ہے "عَدَا

عَدَاؤُ النَّبِيْبِيْحِ" متردد ہو کر جلدی جلدی دوڑنا۔


اور ہر جلدی کو نَبِيْبٌ کہتے ہیں۔

النَّبِيْبُ: عِنْدَ الفَرَسِ: شش سال کا پسلا دینا۔

کی گھاس جس کے پتے چھوٹے چھوٹے اور سہ تخت ہوتا ہے۔ النیل۔ بادل۔
 الثالثة۔ مہ۔ گھر کا گھن۔
 النؤلة والنیلۃ۔ جو حاصل کیا جائے۔
 النیلج والنیلنج۔ چربی کا کامل جس کو گوند نے میں استعمال کیا جائے۔ اور یہ معرب ہے اور عربی اس کی نؤوذہ ہے۔
 النیلج۔ نیل کارنگ۔
 النیلوفور والنیلوفور والنیلوفور۔ گل نیلوفر (جدید)
 النیلورشت۔ ادھ بھنا۔ کہا جاتا ہے "بیض نمبرشت" اور عوام کہتے ہیں "بیض پورشت"
 ناه بناء نینہا الشی۔ بلند ہونا۔ پسند آنا۔
 النایہ۔ بلند۔ نمایاں۔ کہا جاتا ہے "نفس ناهة"۔ رکنے والا نفس۔
 النینم۔ نون میں ذکر کیا گیا۔
 النائی۔ پانسری۔ ج نایات (فارسی)

الْمُظْلُوبُ: پانا۔ حاصل کرنا۔ صفت فاعلی نائیل و صفت مفعولی مینیل اور امر حاضر کامینیل و نعل ہوگا۔ نال من فلان گالی دنا عیب لگانا اور کہا جاتا ہے "نال من عدوہ مظلوبة" اس نے اپنے دشمن سے اپنا مطلوب حاصل کر لیا اور کبھی دو مفعول کی طرف تعدیہ ہوتا ہے جیسے "نالہ مظلوبة" اس نے اس کا مطلوب حاصل کر دیا۔ کہا جاتا ہے "نالین من فلان" معروف فلاں سے مجھے بھلائی پہنچی۔ "ونال من عراض فلان" یعنی اس نے اس کی بے عزتی کی۔ ونال الزحیل: کوچ کا وقت قریب ہونا۔ "وامانال لہم ان یفقهوا" کیا ان کے لیے کچھ کا وقت نہیں آیا۔
 انان انالہ فلانا الشی ولفلان الشی: حاصل کرنا۔
 النائل۔ نا۔ جو حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے "اصبت منہ نایلاً" مجھے اُس سے انعام ملا۔
 النیل۔ مہ۔ جو حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے۔
 اصبت منہ نایلاً۔
 النیل۔ مہر کے ایک دریا کا نام۔ ایک قسم کی گھاس جس سے نیلا رنگتے ہیں۔ ایک دوسری قسم

خوشی کا دن عموماً۔
 التیزک۔ چھوٹا تیزہ۔ تیزے کی مانند شعلہ اور یہ ٹوٹے ہوئے ستارے کی ایک قسم ہے۔ ج تیزک (دخیل)
 نیسب والنیسب والنیسبان دیکھئے ماہن۔
 س۔ ب۔
 نینسان۔ ماہ اپریل۔
 النینص۔ کمزور حرکت۔ موٹی سی۔
 ناص ینیض ینیض العرق: رگ کا حرکت کرنا۔
 ناط ینیط ینیطا و انشاطا ینیطا اور ہوتا۔
 النیط۔ مہ۔ جنازہ۔ موت۔ مدت۔ کہا جاتا ہے "اتاہ نیطۃ" یعنی اس کی مدت آئی "وزماہ اللہ بالنیط" اللہ نے اسے موت دی۔ "وظعن فلان فی نیطہ" فلاں نے اس کے جنازہ میں تیزہ مارا یعنی وہ مر گیا۔
 ناع ینیع نینعا الفصن: شئی کا جھکنا صفت نایع۔
 التوائع۔ جھکی ہوئی شامیں۔
 نال ینیل و نبال نبالاً و نالاً و نالہ



الواو۔ چند معانی کے لیے مستعمل ہے۔

(۱) حرف عطف اور اس کے معنی مطلقاً جمع کے ہیں۔ جیسے جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو۔

(۲) واو حالیہ۔ جملہ اسمیہ پر جیسے "جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ ظَالِمَةٌ" جملہ فعلیہ پر جیسے "جَاءَ زَيْدٌ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ"۔

(۳) واو استناف جیسے "لَا تَأْكُلِ الشَّمَكُ وَتَشْرِبِ اللَّبَنَ"۔

(۴) واو معیہ جیسے "سِرْتُ وَالْعَجَبِلَ"۔

(۵) واو جو اس مضارع منصوب کے اوپر داخل ہو جو نئی کے جواب میں واقع ہو جیسے "لَا تَنْتَهَ عَنْ خَلْقٍ وَتَأْتِي مِغْلَةً"۔

(۶) واو قسم جیسے وَاللَّهِ الْعَظِيمِ۔

(۷) واو رُبّ جیسے وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْضَى سُذُورَهُ۔

(۸) واو ضمیر جمع ذکر جیسے قَامُوا۔

(۹) واو علامت جمع ذکر جیسے "يَلُومُوا مَنِيْنًا"۔

(۱۰) واو فصل جیسے عَمْرٌو كَادُوا حَالَ رَفْعِي وَجَرِي مِّنْ تَاكَمِ عَمْرٍو فَرَّقَ بَيْنَهُمَا۔

(۱۱) واو زائدہ بعد الاء جیسے مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ طَمَعٌ أَوْ حَسَدٌ۔

۱۲) واو تہ کیلئے مخصوص ہے جیسے "وَأَزِيدَاهُ" یا "وَأَظْهَرَاهُ" اور کبھی نداء حقیقی میں مستعمل ہوتا ہے۔

الوآح والواحة۔ ریگستانی علاقہ میں سبزہ زار زمین۔ ج و آحاح۔

وَأَبٌ يَبُوبٌ وَأَنَا وَأَبَةٌ مِنْ فُلَانٍ : شرم کرنا۔ شرم کی وجہ سے ہنسنے۔ وَأَبٌ يَابٌ وَأَبَةٌ : بھر کے کناروں کا سننا۔

وَأَبٌ يَبُوبٌ وَأَبَةٌ : غضبناک ہونا۔

وَأَبَةٌ وَأَبَةٌ : غضبناک کرنا۔ کسی کے ساتھ قابل شرم فعل کرنا۔ زلت کے ساتھ حاجت سے پھیرنا۔

إِقَابٌ وَإِقَابَةٌ : شرم کرنا۔

الإِبَةُ وَالْقُوْبَةُ وَالْمُوْبَةُ : رسوائی۔ عار۔ شرم۔

الْوَابُ مِنَ الْقِدَاحِ : بڑا پھل۔ مین الحوالبو : باہم لے ہوئے کناروں والا مضبوط کھڑ۔ چوڑا۔ بڑا اونٹ۔ ج و آوَاب۔

الْوَأْبَةُ : چمکڑا کڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے۔ وَالْوَأْبِيَّةُ : بست گرا کتواں۔ فَذْرٌ وَأَبَةٌ : کشادہ ہانڈی۔

المُوْبِيَّاتُ : رسوا کرنے والی باتیں۔

الْوَأَجُ : سخت بھوک۔

وَأَذْيٌ وَأَذْيٌ : لڑکی کو زندہ درگور کرنا۔ صفت مفعول و نَبْدٌ وَنَبْدَةٌ : مؤؤؤؤة۔

فُلَانًا : بوجھل کرنا۔

فَوَادٌ وَإِنَادٌ : امر۔ مسلت اور آہنگی سے کرنا۔ وَتَوَادَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ : زمین کا کسی کو چھایا لینا اور غائب کر دینا۔

المَوَادُّ فِي قِيَابِهَا : بوجھل ہونے کی وجہ سے چلنا۔

الْوَادُ : مہ۔ سخت آواز۔ دھاکہ۔ اونٹ کی بلبلاہٹ۔

الْوَيْبَةُ : سخت۔ اونٹ کی بلبلاہٹ۔ بیروں کی چاپ جو دور سے سنائی دے۔ اور کما جاتا ہے۔

"مَشَى مَشًا وَيَبَدًا" : وہ مسرت و سنجیدگی سے چلا۔ وَالْمَوَادُّ وَالْمَوَادُّ : مسجیدگی۔ مسرت۔

المَوَائِدُ : مصیبتیں (اس کی اصل الماؤد ہے) وَأَزْيٌ وَأَزْيٌ وَأَزْيٌ : گھبراہٹ میں ڈالنا۔ النَّارُ وَاللَّيْلُ : آگ روشن کرنے کے لیے

گڑھا بنانا)۔ وَوَأَرْ تَوَيْتِرًا : فُلَانًا : مصیبت میں ڈالنا۔

أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ : نفرت دلانا۔ خردار کرنا۔ اِسْتَوْأَرَتِ الْإِبِلُ : اونٹوں کا رک کر پہاڑ پر چڑھ جانا۔

الْوَابُو : خاف۔ خوفزدہ۔

الْإِزَّةُ : جازات و اِزُونُ وَالْوُؤْرَةُ ج و أَوْؤُ : آگ سلگنے کی جگہ۔ الْإِزَّةُ : آگ۔ اوجھ میں بکا ہوا گوشت۔ دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت۔

دشمنی۔ آگ کی بھڑک۔ کوہان کی چربی۔

الْوَنَارُ : لپے کی مٹی نکالنے کے گڑھے۔

أَرْضٌ وَنُورَةٌ : بست گرمی والی زمین۔

وَأَرْضٌ يَبُوبُ وَأَرْضٌ يَبُوبُ : زمین پر چلنا۔ تَوَاصُّ الْقَوْمِ : اکٹھا ہونا پانی پر بھیڑ کرنا۔

الْوَيْبَةُ : جماعت۔ مخلوق کما جاتا ہے "مَآ أَدْرِي أَيُّ الْوَيْبَةِ هُوَ" میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔

وَأَطَّ يَبْطُ وَأَطَّ الْقَوْمُ : زیارت کرنا۔ الشَّيْءُ : جوش میں آنا۔

الْوَأَطَةُ : مِنَ الْأَرْضِ : بلند زمین۔ مین الساء : پانی کی بڑی جگہ۔

وَأَلٌ يَبُلٌ وَأَلٌ وَوَيْبَةٌ وَوَيْبَةٌ : وَاوَالٌ : نجات دہندہ۔ الْبَيْبُ : پناہ لینا۔

فُلَانًا : جائے پناہ بنانا۔ اِلَى اللَّهِ : رجوع کرنا۔ توبہ کرنا۔

وَأَوَالٌ : الْمَكَانُ : بستہ جی ہوئی بیٹھینوں والی ہونا۔ وَأَوَالٌ : بستہ جی ہوئی بیٹھینوں والی بنانا۔

الْمَكَانُ أَوْ الْكَلْبُ : گور بیٹھنے سے خراب کرنا۔ الْوَالُ وَالْمَوَالُ وَالْمَوَالُ : جائے پناہ۔

إِسْتَوَأْتُ إِسْتَيْتَالًا الْإِبِلُ: اونٹوں کا اکٹھا ہونا۔

الْوَالَةَ: اونٹ یا بکریوں کی تہ بٹہ بیگنیاں۔

وَأُمَةٌ يُؤْنَسُهُ تَوَيْتُمًا: بدھل کر دینا۔

وَأَعْمَةٌ وَوَالَةٌ مَوَافَقَةٌ: موافقت کرنا۔

تَوَاءَمَ: موافق ہونا۔ مناسب ہونا۔

أَتَاَمْتُ إِتَامًا مَوَافَقَةٌ: جڑواں جننا۔ صفت مُتَفِيمٌ: اس میں داؤ کی تبدیلی تاسے ہوئی ہے۔

الْوَامُ: گرم کرہ۔

الْوَامَةُ: دوسرے کی صنعت کا نقل۔

المُوَامُ: بدھل۔ بڑے سروالا۔

المُتَوَائِمُ: فاعلًا مَتَوَائِمٌ: متناسب۔

وَأَوَاؤُ أَوَاؤَةُ الْكَلْبُ: بھونکنا۔ کما جاتا ہے "مَا

سَمِعْتُ إِلَّا وَغَوْعَةَ الذَّنَابِ وَ وَأَوَاؤَةَ الْكِلَابِ": میں نے بھیروں کے چیخنے اور کتوں کے بھونکنے کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔

وَأَمِيضٌ وَأَمِيضٌ وَعَدَهُ كَرْنَا: الشَّمِيُّ: ذم دار ہونا۔

تَوَاعَى تَوَائِمًا الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔

إِتَائِي إِيْتَاءً: وعدہ قبول کرنا۔

إِسْتَوَأَى اسْتَيْتَالًا الرَّجُلُ: وعدہ لینا۔

الْوَالِيُّ: مہم۔ وعدہ۔ وہم وگمان۔ لوگوں کی تعداد۔

الْوَأْيُ مِنَ الدَّوَابِّ: تیز رفتار۔ مَوْنَتْ وَآةٌ (جیسے کہ قَتَاةٌ)

الْوَيْتَةُ: بڑے بڑے۔ بڑے پیت والی اونٹنی)

وَالْوَيْتَةُ: بڑا بیل۔ بڑی ہانڈی الوَيْتَةُ: موٹی۔

اپنے گھر کی محافظ عورت۔

وَبَّ يُوْبُ وَتَابًا: لڑائی میں حملہ کیلئے تیار ہونا۔

وَبَّ يُوْبًا وَبَا وَوَبَّ الْمَتَاعَ: ترتیب سے رکھنا۔

وَبَّأَ وَأَوْبًا إِلَيْهِ: اشارہ کرنا۔

وَبَّ يُوْبًا وَيَبَّأُ وَيَبَّأُ وَيُوْبُ وَيُوْبُ وَيَبَّأُ وَيَبَّأُ

وَابَاءً وَابَاءً وَوَيْبًا وَيُوْبًا وَيَبَّأُ وَيَبَّأُ: بست و بازو ہونا۔ اسم البئنة عذۃ کی مانند۔

تَوْبًا بَلَدًا: شہر کی آب و ہوا کو ناموافق بنا۔

إِسْتَوْنَا اسْتَيْبَاءً الْمَدِينَةَ: و بازو ہونا۔

الْوَبَّاحُ: أَوْبَاءُ وَالْوَبَّاءُ: جُوبَةُ: عام بیماری۔

الْوَيْبُ وَالْوَيْبِيُّ وَالْمَوْبِيُّ: بست و بازو جگہ اور ہر ایک کی موٹ تانے کے ساتھ۔

المَوْبِيُّ: فاعلًا تَوْبًا بَلَدًا۔

وَبَّتَ يَبِّتُ وَيَبَّأُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

وَيَبِّتُهُ: جھڑکنا۔ ملامت کرنا۔ عار دلانا۔ دھمکانا۔

الْوَيْبُخَةُ: سرزنس۔ تکلیف دہ ملامت۔

وَيَبِّدُ يَبِّدُ وَيَبِّدُ: بد حال اور کم مال والا ہونا۔

صفت وَيَدٌ: الْقَوْبُ: کپڑا بوسیدہ ہونا۔

التَّهَارُ: دن سخت گرم ہونا۔ عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔

أَوْبِدُهُ وَإِيْبَادًا: جد کرنا۔

تَوَيْتَدُ أَمَوَالَهُمُ: نظر لگانے کیلئے معین کرنا۔

الْوَيْبِدُ: پھاڑ کا لڑھا۔

الْوَيْبِدُ: مہم۔ بد حال و سختی زندگی۔ کما جاتا ہے

"فَلَانٌ لَهْنٌ وَيَبِدٌ": فلان بد حالی میں ہے اور کبھی اس

مصدر کو بطور وصف کے بھی استعمال کرتے ہیں

اور کہتے ہیں "زَجَلٌ وَيَبِدٌ": یعنی بد حال مرد۔ واحد

اور جمع دونوں کے لیے اور کبھی آؤبَادُ جمع لاتے

ہیں۔ الوَيْبِدُ: گرمی۔ عیب۔ پھاڑ کا لڑھا۔

الْوَيْبِدُ: بھوکا۔ وَالْمُتَوَيْبِدُ: سخت نظر لگانے کا

سبب بننے والا۔

قَوْمٌ آؤبَادٌ: مفلس لوگ۔

المُسْتَوَيْبِدُ: قلت مال اور کثرت عیال سے

بد حال مرد۔

وَبَّرَ يُوْبِرُ وَيَبَّرُ وَأَوْبِرُ وَإِيْبَارًا: بست پشم والا ہونا۔

صفت وَيَبَّرُ وَأَوْبِرُ: مَوْنَتْ وَبِرَةٌ وَوَبَّرَاءُ۔

وَبَّرَ يَبِّرُ وَيَبِّرُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

وَبَّرَ: جموٹے چھوٹے بال نکالنا۔ التَّغْلِبُ:

لومڑی کا نشان چھپانے کیلئے سخت زمین پر چلنا۔

الرَّجُلُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ فُلَانٌ: بھانگا

اور وحشت زدہ ہونا یا تھما زندگی بسر کرنا۔ عَلَيْهِ

الْأَمْرُ: پوشیدہ رکھنا۔

وَبَّرَبَتِ التَّمْلَةَ: درخت خرابی کا بھارتا۔

الْوَبْرُ: سخت سردی کے سات دنوں میں سے

ایک دن۔ بلی سے چھوٹا ایک جانور جس کی دم اور

کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جُوبُورٌ وَوَبَارٌ

وَبَارَةٌ: مَوْنَتْ الوَيْبَةَ۔

الْوَيْبَرُ: مہم۔ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کے بال ج

أَوْبَارٌ: أَهْلُ الوَيْبَرِ: رہنمائی لوگ۔ کما جاتا ہے

"أَخَذَ الشَّيْءَ يُوْبِرُهُ": یعنی اس نے سارا لے لیا۔

الْوَيْبَرَةُ: وَبَّرَ كَأَوْبَادٍ۔

الْوَابِرُ: فاعلًا: کما جاتا ہے "مَابَالِدًا وَوَابِرًا" گھر میں

کوئی نہیں۔

بَنَاتُ الْأَوْبَرِ وَبَنَاتُ أَوْبَرٍ: چھوٹی اور ردی

قسم کی سانپ کی چھتری۔ اور کما جاتا ہے لَقِيْتُ

بِنَةَ بَنَاتِ أَوْبَرٍ مَجَّهٌ اس سے مصیبت حاصل

ہوئی۔

وَيْشٌ يُوْبِشُ وَيَبِّشُ وَالظَّفَرُ: ناخن پر سفید

داغ ہونا۔ جِلْدَةُ البَعِيْرِ: خارش کی وجہ سے

اونٹ کی کھال پر سیاہ سفید داغ ہونا۔ صفت

وَيْشٌ۔

وَيْشٌ تَوَيْبِنًا الْجَمْرُ: جنگاری کا ہوا چلنے

سے سلگنا۔ الْقَوْمُ فِي أَمْرٍ: کسی کام میں ہر جگہ

سے مشغول ہونا۔ لِلْمَحْزَبِ: مختلف قبائل

سے جنگ کیلئے اکٹھا ہونا۔ وَبَشَّتِ الْأَطْفَالَ:

ناخنوں میں سفید داغ ہونا۔

أَوْبَشٌ: تیز چلنا۔ أَوْبَشَتِ الْأَرْضُ: غلوط

پودوں والی ہونا۔

الْوَيْشُ وَالْوَيْشُ: کھلی کے داغ۔ ناخن کے

سفید داغ۔ أَوْبَشَ كَأَوْبَادٍ: یعنی سفید

وَيْشُ الْكَلَامِ: ردی کلام اور کما جاتا ہے "مَا

بِهَذِهِ الْأَرْضِ إِلَّا أَوْبَشَ مِنْ شَجَرٍ أَوْ نَبَاتٍ"

یعنی اس زمین میں صرف توڑے سے بھرے

ہوئے درخت یا نباتات ہیں۔

وَبَضٌ يَبِضُ وَوَبَّضًا وَيَبِّضُ وَبِضَةٌ: چمکانا۔

بجلی کو تھکانا۔ صفت وَابِضٌ: الجردُ: لپے کا

آکھیں کھولنا۔ وَبِضَتِ الْأَرْضُ: بست نباتات

والی ہونا۔

وَبِضٌ يُوْبِضُ وَبِضًا: چست ہونا۔ صفت

وَبِضٌ۔

وَبَّضَ الْجُرْدُ: لپے کا آکھیں کھولنا۔ لَهُ

يَبْسِيوُ: تھوڑا دینا۔

أَوْبِضَتِ النَّارُ: روشن ہونا۔ شعلہ اٹھنا۔

أَوْبِضَتِ الْأَرْضُ: نباتات ظاہر ہونا۔ یا بست

نباتات والی ہونا۔

أَبْيَضٌ وَابِضٌ: چمکانا سفید۔

<p>ماند سخت ہوتا۔ قَوَاتِرُ الْأَشْيَاءِ: وقفہ کے ساتھ لگاتار ہونا۔ الْوُتْرُ وَالْوُتْرُ: بے جوڑ۔ طاق۔ بدلہ یا بدلہ لینے میں ظلم۔ ج. اَوْتَارُ۔ الْوُتْرُ: وَتْرَةٌ کی جمع ہے بمعنی تانت۔ ج. اَوْتَارًا وِ تَارًا۔ الْوُتْرَةُ: دو انگلیوں کے درمیان کی کھال۔ کان کے اوپر کے حصہ کی نرم بڑی۔ جسے کانکارہ یا ناک کے بانسہ اور مونچھ کے درمیان کا حصہ۔ کمان سے تیر نکلنے کی جگہ۔ زبان کے نیچے کا چھما۔ مکان کا وہ حصہ جہاں ستونوں سے طاق کے مانند بنایا جائے۔ ہر چیز کا گھیرا۔ ہر چیز کا خالص حصہ۔ ج. وِتْرٌ وِ تَوَاتِرًا۔ الْوُتَيْرَةُ: طریقہ۔ وقفہ۔ سستی۔ نیزہ بازی دیکھنے کا دائرہ۔ قبر۔ گھوڑے کی پیشانی کا گول سفید داغ۔ بدلہ یا بدلہ لینے میں ظلم۔ قید۔ تاخیر۔ تنہوں کے درمیان کا پردہ۔ کان کے اوپر کے حصہ کی نرم بڑی۔ دو انگلیوں کے درمیان کی کھال۔ ہونٹ کا حلقہ۔ مکان کا وہ حصہ جہاں ستونوں سے طاق کے مانند بنایا جائے۔ سفید زمین۔ گلاب کا شگونہ۔ پہلی دہائی کا نام۔ یعنی جب دس کا عدد پورا ہوتا ہے تو اسے ویتیرہ کہتے ہیں۔ تَنْزِيٌّ: اس کی اصل وَتْرِيٌّ ہے اور اس کے معنی ایک کے بعد ایک کا آنا جیسے اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَنْزِيًّا۔ الْمَوْتُورُ: منج۔ وہ شخص جو اپنے مقتول کے خون کا بدلہ نہ لے سکے۔ الْوُنْثُ: ہر چیز کا قلیل۔ کہتے۔ وَيْعٌ يُّوْنَعٌ وَنَعًا: گنگر ہونا۔ دین یا دنیا کے بارے میں ہلاک ہونا۔ درد مند ہونا۔ بد خلق ہونا۔ ملامت زدہ ہونا۔ گفتگو میں ناسمجھ ہونا۔ ہر قول کہنا اور حد درجہ جاہل ہونا۔ فِی حُجَّتِهِ غَلْطِي کرنا۔ أَوْفَعَةٌ اِيْتَاعًا: ہلاک کرنا۔ قید کرنا اور بقول بعض مصیبت میں ڈالنا۔ درد ناک کرنا۔ اَوْفَعَةٌ عِنْدَ السُّلْطَانِ: معضرات کی تلقین کرنا۔ کماجاتا ہے۔ "أَوْفَعٌ وَيَعَةٌ بِالْإِنْفِ" تم اس نے اپنے دین کو گناہ سے خراب کیا۔</p>	<p>الْوَيْبَةُ: دلیل میں غلطی۔ الْمَوْفَعَةُ: ہلاکت۔ وَتْرٌ يَبِينُ وَتْرًا وَيَتْرَةُ الْمَاءُ: پانی کا ہمیشہ رہنا اور خشم نہ ہونا۔ بِالْمَكَانِ: ٹھہرنا اور اقامت کرنا۔ وَتْنَاوُ وَيَتْنَاوُ: التَّجَلُّلُ: شہ رگ پر مارنا۔ وَتْرٌ: شہ رگ پر مارنا۔ وَأَتْنَةُ مَوَاتِنَةٍ: چٹنا۔ دوسرے کے مانند کام کرنا۔ وَأَتْنُ الْمَكَانِ: دور تک ٹھہرنا۔ اِسْتَوْفَرْنَ الْمَاءَ: مال (یعنی جانوروں کا) موٹا ہونا۔ الْوَاتِنُ: فا۔ کسی جگہ میں ہمیشہ رہنے والا۔ ج. وِتْنٌ۔ ہمیشہ بیٹنے والا یعنی جو کسی ختم نہ ہو۔ الْوَيْثَةُ: مقروض کا چھما۔ مخالفت۔ الْوَيْثِيُّ: مہ۔ شہ رگ۔ دل کی رگ جس سے تمام رگوں میں خون جاتا ہے۔ ج. وِتْنٌ وِ اَوْثِنَةٌ۔ وَقَائِنًا وَقَا اللِّحْمِ: مردار کرنا۔ اَلْوَيْثُ: کھوٹی کے سرے کو پاش پاش کر دینا (وَأَوْفًا) يَدُهُ: موج ڈالنا۔ وَيْثٌ تَوْفًا وَتًا وِوَأَوْ تَوْثُءًا وِوَيْثٌ يَدُهُ: ہاتھ میں موج ہونا۔ صفت وَيْثَةٌ وِ مَوْثُوءَةٌ وِ وَيْثَةٌ۔ وَتَوْثُوءٌ وِوَأَوْ تَوْثُوءَةٌ: موج لاحق ہونا۔ الْوَيْثَةُ وِوَأَوْ تَوْثُوءَةٌ: موج۔ الْوَيْثِيُّ: ٹوٹے ہوئے ہاتھ والا۔ الْمَيْفَعَةُ: میخ گاڑنے کا آلہ۔ وَلَبَّ يَبْتُ وَيْتَاوُ وَيْتَاوُ وَيْتَانًا وِوَقَائِنًا وِوَقَائِنًا وِوَيْثِيَّةً وِوَيْثِيَّةً: اُنْهَأَ: کو دنا۔ عرب کا قول ہے "وَلَبَّ اِلَى الشَّرَفِ وَيْتَانًا" وہ عزت پر دفعتاً پہنچ گیا۔ وَيْثِيَّةٌ تَوْثِيَّةٌ: گدی پر بٹھانا۔ اَلْوَسَادَةُ: بیٹھنے کیلئے بچھانا۔ وَيْثِيَّةٌ وِوَقَائِنًا: کسی کیلئے فرش بچھانا۔ أَوْثِيَّةٌ اِيْتَانًا: کو دانا۔ اَوْثِيَّةُ الْمَوْضِعِ: کسی مقام سے کو دانا۔ وَالْيَبَةُ مَوَاتِنَةٌ: سبقت کرنا۔ ٹوٹ پڑنا۔ تَوَيْبٌ عَلَيْهِ فِی اَرْضِهِ: ظلم تبضع کر لینا۔ تَوَابٌ الْقَوْمِ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ الْوَوَابُ: تخت۔ چھوٹا۔ بیٹھنے کی جگہ۔ الْوَوَيْبِيُّ: بہت کوڑے والا۔ کہا جاتا ہے "فَوْشٌ أَوْ نَاقَةٌ وِوَيْبِيٌّ" بہت اچھلنے کوڑے والا گھوڑا یا</p>	<p>اَوْثِيٌّ۔ الْوَوَابُ: بہت کوڑے والا۔ فَوْشٌ وِوَابَةٌ تَبْرٌ رَفْرًا گھوڑا۔ الْوَيْبِيُّ: کوڑے والا۔ بیٹھنے والا۔ بلند زمین۔ نرم زمین۔ چھوٹا بچھما۔ الْوَوَيْبِيُّ: غزودہ نہ کرنے والا ہلاک ہونا۔ وَفَيْحٌ يُّوْفِحٌ وِوَأَجَعَةٌ: گاڑھا ہونا۔ اَلْفَرَشُ: گھوڑے کا موٹا ہونا۔ اَلْمَكَاكِنُ: بہت گھاس والی ہونا۔ صفت وِوَيْبِيٌّ۔ أَوْفَعَةٌ اِيْتَاعًا: زیادہ کرنا۔ اِسْتَوْفَرْنَ الْمَاءَ: زیادہ ہونا۔ مِّنَ الْمَاءِ: زیادہ لینا۔ اَلْفَرَشُ: گھوڑے کا موٹا اور گھسا ہونا۔ اَلتَّبْتُ: جنابت کا بہت ہونا اور گھنچان ہونا۔ الْوَيْبِيُّ: گاڑھا۔ گھسا۔ تَوَابٌ وِوَيْبِيٌّ: گف بنا ہوا کپڑا۔ الْوَيْبِيَّةُ: بہت درختوں والی زمین۔ گھنچان درختوں والی زمین۔ أَرْضٌ مَّوْتَبِيَّةٌ وِوَشَجَعَةٌ: بہت گھاس والی زمین۔ الْمَوْفُوحُ مِّنَ الْقِيَابِ: نرم بنا ہوا کپڑا۔ الْوَيْبَةُ: پالی کی تری۔ الْوَيْبِيَّةُ: گاڑھا دودھ۔ چربی ملی ہوئی نرم بڑی۔ تروتازہ اُلْجَمِيٌّ ہوئی گھاس۔ ٹیچھروالی زمین۔ رَجُلٌ مَّوْتَبِيٌّ اَلْخَلْقِ وِوَمَوْفُوءَةٌ: کمزور جسم کا مرد۔ وَتَوْثُوءٌ وِوَأَوْ تَوْثُوءَةٌ: بچھونے کا نرم و ملائم ہونا۔ صفت وِوَيْبِيٌّ۔ اَلْحُمَةُ: بہت گوشت والا ہونا۔ اَلرَّجُلُ: موٹا ہونا۔ وَتَوْثُوءٌ وِوَأَوْ تَوْثُوءَةٌ: بچھونے کو روندنا۔ نرم کرنا۔ اِسْتَوْفَرْنَ الْمَاءَ: بچھونے کو نرم پانا۔ مِّنَ الْمَاءِ: بہت لینا۔ الْوَوَابُ: طاہریت قدم۔ الْوَوَابُ: مہ چمڑے کا کٹڑا جس کو تسمہ کے طور پر لہا کہا جاتا ہے۔ صدری کے اندام کی کپڑا۔ الْوَوَابُ: ایک قسم کا کپڑا جو سارے کپڑوں سے اوپر رہتا ہے۔ نرم۔ وِوَالْمَيْفَعَةُ: زین پر رکھنے</p>
---	--	---

وَوَيْتٌ نُؤْتِي وَيُتَابِدُهُ: ہاتھ میں موج ہونا۔
صفت مؤنثہ۔

أَوْثَى إِثْنَاءَ الرَّجُلِ: زخمی یا شکستہ سواری والا ہوتا۔

الْوَثَى: موج۔

الْوَثَى: تگنیں۔

الْمَيْسَاءَةُ: موگری۔ ہتھوڑا۔

وَجَّ يَوْجٌ وَجًا: تیز چلنا۔ دوڑنا۔

الْوَجُّ: مہ تیزی۔ شتر مرغ۔ قنار۔ بل کی کڑی۔

ایک دروا کا نام۔

وَجَّ يَوْجًا وَجًا وَتَوَجَّاهُ فَلَانًا بِالْبَيْتَيْنِ أَوْ بَيْدِهِ: کسی کی چھری یا ہاتھ سے مارنا۔ صفت

مفعول مؤنثہ ووجی ووجی اور اسم الوجاء۔
الشَّمْرُ: گھوڑے کا کونا۔

وَجَّاهُ يَوْجًا يَوْجًا: ختم شدہ پانی والا پاتا۔

أَوْجَاتُ الْبَيْتِ: کونیں کا پانی ختم ہونا۔ اَوْجًا
الرَّجُلِ: ٹاکام ہونا۔ فَلَانًا عَنَهُ: دور کرنا۔

ہٹانا۔

إِتَّجَّاهُ الشَّمْرُ: گھوڑے کا گوشے دار ہونا۔

الْوَجَّءُ وَالْوَجَّاءُ وَالْوَجَّاءُ: بے برکت چیز جیسے
بے پانی کا کونواں۔

الْوَجِينَةُ: گائے۔ گھوڑے یا بڑوں کو کوٹ کر بھی
یا زیتون کے تیل میں لت پت کر کے تیار کیا ہوا

کھانا۔

وَجَبَ يَجِبُ وَجُوبًا وَجِبَةُ الشَّيْءِ: ثابت
ہونا۔ لازم ہونا۔ کہا جاتا ہے "وَجَبَ التَّبِيغُ

وَوَجَبَ لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا" یعنی بیج لازم
ہوگئی اور میری فلاں پر اتنی چیز ثابت ہوگئی (۔

وَجِبَةُ الْحَائِظِ وَنَحْوُهُ: دیوار کا زمین پر گرتا
الرَّجُلِ: دن میں ایک دفعہ کھانا (۔ وَجِبْنَا

وَوَجُوبًا الرَّجُلِ: مرتے ہوئے گرتا۔ کہا جاتا
ہے "ضَرْبَةُ فَوْجَبٍ" اس نے اسے مارا پس وہ

مر کر گیا فَلَانًا عَنَهُ: باز رکھنا۔ ہٹا دینا۔ وَجِبَتِ
الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب ہونا۔ العَيْنُ:

آکھ کا دھنس جانا۔ وَجَبَ وَجِبْنَا وَجِبْنَا
وَوَجِبْنَا الْقَلْبُ: دل کا تڑپنا۔ دھڑکنا۔

وَجِبَ يَوْجِبُ وَجُوبَةً: بزدل ہونا۔
وَجِبَ: دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا۔

مضبوطی۔ أَرْضٌ وَثِيقَةٌ: بہت گھاس والی زمین ج
وَنَائِقٍ۔

الأَوْثِقُ: اسم تفضیل۔ مَوْنِثٌ وَثَقِيَ أَوْ رَأَى
سے ہے "اسْتَفْسَكَ بِالْعَزْوَةِ الْوُثْقَى" اس نے

مضبوط حلقہ پکڑ لیا۔ اور کہا جاتا ہے "خَذِيَ الْأَمْرُ
بِالْأَوْثِقِ" معاملہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو۔

المَوْثِقُ وَالْمِثْثاقُ: عمدہ۔ ج مَوَائِقُ وَمِثَائِقُ وَ
مَوَائِقُ وَمِثَائِقُ۔

وَقِيلَ الْمَالُ: مال جمع کرنا۔ الشَّيْءُ: مضبوط و
استوار کرنا۔

الْوَثَلُ: درخت خرما کے چھال کی رسی۔ چمڑے کا
میل کیچیل۔

الْوَثِيلُ: درخت خرما کی چھال۔ درخت خرما کی
چھال کی رستی یا جوت کی رستی۔

وَتَمَّ يَتَمُّهُمَا الشَّيْءُ: توڑنا۔ کونا۔ وَتَمَّ الْمَطَرُ
الأَرْضَ: زور سے بارش ہونا۔ الْقَرْمُصُ

الأَرْضَ: گھوڑے کا زمین پر پاؤں مارنا۔
وَتَمَّتْ وَتَمَّتَا وَتَمَّتَا الْجِجَارَةُ رَجُلًا:

پتھروں کا پیر کو خون آلود کر دینا۔
وَتَمَّ يَتَمُّهُمَا وَتَمَّتَا الْمَكَانَ: کم گھاس والی ہونا۔

وَتَمَّ يَتَمُّهُمَا وَتَمَّتَا: بہت گوشت والا اور کھٹا
ہونا۔ صفت مؤنثہ۔

وَأَتَمَّ مَوَالِمَهُ فِي الْعَدُوِّ: دشمنوں میں گھستے
ہوئے چلا جانا۔

الْوَيْثِمَةُ: چتر۔ چترمان کا پتھر۔ گھاس یا نباتات کا
ڈھیر۔

الْوَيْثِمُ: کسی۔
خُفَّ يَثِمُّ: بہت پامال کرنے والا گھر۔

وَوَثِنَ يَثِنُ وَوَثُونًا: عمدہ پر قائم رہنا۔
أَوْثَنَةُ إِثْنَانًا: بہت عطیہ دینا۔ مِنَ الْمَالِ:

بہت لینا۔
إِسْتَوْثِنَ إِسْتِثْنَانًا الشَّيْءُ: باقی رہنا۔ مضبوط

ہونا۔ الْمَالُ: مال یعنی مویشی کا موٹا ہونا۔
مِنَ الْمَالِ: بہت لینا۔

إِسْتَوْثِنْتَ الْإِبِلَ أَوْلَادًا كَابِرًا:
الْوَائِنُ: نا۔ ایک جگہ پر قائم رہنے والا۔ ج وَوَثِنَ۔
الْوَيْثِنُ: بہت۔ ج أَوْثَانًا وَوَثِنًا وَوَثِنًا وَأَثِنًا۔

الْوَيْثِيُّ: بہت پرست۔

کا گدیلا۔ ج مَوَائِبُ وَمِثَائِبُ۔
الْوَيْثِيُّ وَالْوَيْثِيُّ: نرم و ملائم۔ الِوَيْثِيُّ: معالیٰ و نر۔

الْوَيْثِيَّةُ: و نیر کا موٹ۔ بہت گوشت والی۔ ج
وَنَائِبُ وَوَيْثِيَّةٌ۔

الْوَيْثِيُّ: نرم چھوٹا۔
الْوَيْثِيَّةُ وَالْوَيْثِيَّةُ: چھوٹے کی نرمی۔

المَوَائِبُ وَالْمِثَائِبُ: درندوں کی کھالیں۔ ریشم
دوبیا کی بنی ہوئی۔

وَقَعَّ يَنْعُ وَتَغَارَ اسْمُهُ: توڑنا۔ پکھلنا۔
الْوَيْثِيَّةُ مِنَ الْمَطَرِ: تھوڑی بارش۔

الْوَيْثِيَّةُ: موسم بہار کی الجھی ہوئی گھاس۔
الْوَيْثِيَّةُ مِنَ الْمَطَرِ: تھوڑی بارش۔

وَتَفَّ يَتَفُّ وَتَفًّا وَتَفًّا وَتَفًّا الْقُدْرُ:
بانڈی کے لیے پایہ بنانا۔

وَتَفَّ يَتَفُّ لِقَهْ وَوُفُوْقًا وَمُتَفًا يَفْلَانٍ بِمَرَدِهِ
کرنا۔ صفت فاعلی واثق اور صفت مفعولی

مَوْثِقٌ بِهِ۔
وَتَفَّ يَتَفُّ وَثَاقَةً الشَّيْءُ: قوی و مضبوط ہونا۔

وَتَفَّ الرَّجُلُ: مضبوط و استوار کرنا۔
وَتَفَّ الْأَمْرُ: مضبوط کرنا۔ الرَّجُلُ: کسی

عضص کو مستحضر کرنا۔
أَوْثَنَةُ إِثْنَانًا: رستی سے باز ہونا۔

وَأَثَنُوا نَاقًا وَمَوَالِمَهُ: معاہدہ کرنا۔
تَوَثَّقَ: مضبوط و قوی ہونا۔ فِي الْأَمْرِ:

ویشہ لینا۔
تَوَثَّقَ الْقَوْمُ: باہم عمدہ بیان ہونا۔

إِسْتَوْثَقَ مِنْهُ: ویشہ لینا۔ مِنَ الْأَمْوَالِ
حفاظت میں مبالغہ کرنا۔

الثَّقَةُ: مہ قابل بھروسہ۔ لفظ واحد مذکر مومنث
واحد جمع سب کے لیے مستعمل ہے اور کبھی

ثقات کے وزن پر مذکر مومنث دونوں کے لیے
جمع لاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَخُو ثِقَةٍ"

یعنی فلاں ہمارے ہیں اور اس کی ہمداری پر بھروسہ
کیا جاتا ہے۔

الْوَثَاقُ وَالْوَثَاقُ: باز رہنے کی چیز جیسے رستی
دنیورہج و وثق۔

الْوَيْثِيُّ: مضبوط۔ ج وَوَثَاقُ۔
الْوَيْثِيَّةُ: وثیق کا موٹ۔ قابل اعتماد۔ کام کی

ہ: دن میں ایک ہی مرتبہ کھانے کا عادی بنانا اور ایسا ہی وَجِبَ نَفْسَهُ وَلِنَفْسِهِ: اپنے کو ایک ہی مرتبہ کھانے کا عادی کرنا۔ الثَّاقِفَةُ: اونٹنی کو دن رات میں صرف ایک مرتبہ دوھنا۔ الْأَمْرُ عَلَيْهِ: لازم کرنا۔ بِه الْأَرْضُ: زمین پر پنک دینا۔ وَجِبَتِ الْإِبِلُ: اونٹ کا تھلکا۔ وَجِبَ اللَّيْثُ فِي مَضْعِ الثَّاقِفَةِ: بیوسی کا تھن میں جم جانا۔ البعيرُ: اونٹ کا بیٹھا۔

أَوْجِبَ إِيجَابًا فَلَانَ حَقَّةً: رعایت کرنا۔ کہا جاتا ہے قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ إِيجَابًا لِحَقِّهِ میں نے اس کے حق کی رعایت کی وجہ سے یہ کیا۔ الشُّيْ: واجب کرنا یا سمجھنا۔ أَوْجِبَ الْبَيْعَ: لازم کرنا۔ الرَّجُلُ: دن میں ایک مرتبہ کھانا۔ جنت یا جہنم کے لائق کام کرنا۔ اللَّهُ قَلْبُهُ: دل کو تڑپانا۔ دھڑکانا۔

وَأَجِبَهُ وَجَابًا وَمُؤَاجِبَةً: لازم کرنا۔ تَوَجَّبَ: دن میں ایک مرتبہ کھانا۔ تَوَاجَّجُوا: باہم شرط لگانا (گویا کہ بعض نے بعض پر کچھ واجب کیا)

اسْتَوْجَبَ اسْتِيجَابًا الشُّيْ: مستحق ہونا۔ واجب و لازم جانا۔

الْوَجِبُ: مہ بڑی ملک۔ ج و جَابُ (۔) وَالْوَجَابُ وَالْوَجَابَةُ: بزدل۔ قَلْبٌ وَجَابٌ: بہت دھڑکنے والا دل۔ الْوَجْبُ: گھوڑو، زیا تیر اندازی کی شرط۔ الْوَجْبِيَّةُ: مہ دھاکے کے ساتھ گرنا۔ یا گرنے والے کی آواز۔ دن میں ایک مرتبہ کی خوراک۔ ج و جِبَاتُ۔

الْوَجُوبُ: مہ ثبوت۔ ذات کا اپنی عین کا اقتضاء کرنا اور خارج میں محقق ہونا۔

الْوَجْبِيَّةُ: وظیفہ۔ بیچ کو واجب کرنا۔ پھر پہلے پہل لینا اور جب لے کر فارغ ہو چکو تو کہا جاتا ہے "قَدْ اسْتَوْفَيْتَ وَجِبَتَكَ"

الْوَاجِبُ: فا۔ لازم اور جائز ممکن متمتع کے مقابل پر بھی بولا جاتا ہے۔ الْوَاجِبُ: مقتول و واجب الْوَجُودُ: جس کا وجود بذاتہ ہو اور وہ کسی کا عین نہ ہو اور ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔

الْمُؤَجَّبُ: فاسبب۔ باعث۔

الْمُؤَجَّبُ: مفع۔ مِنْ الْكَلَامِ: جس میں نفی نہی استعمال ہو۔

الْمُؤَجَّبَةُ: بڑی نیکی یا بڑا گناہ جو باعث جنت یا جہنم ہو۔

الْمُؤَجَّبُ: موت۔ ج مؤاجب۔ کہا جاتا ہے "خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى مُؤَاجِبِهِمْ" قوم اپنی موت کی جگہوں میں گئی۔

وَجَّحَ الشُّيْ: ظاہر ہونا۔

أَوْجَحَ: ظاہر ہونا۔ الْحَافِظُ: گھوڑے میں چٹان تک پہنچنا۔ الْبَيْتُ: گھر پر پردہ لگانا۔ هُ إِلَى كَذَا: مجبور کرنا۔ او جَحَتِ النَّارُ: آگ کا چمکانا۔ غُرَّةُ الْقَرْسِ: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کا واضح ہونا۔ أَوْجَحَ الْبَيْتُ فَلَانًا:۔ پیشاب کا کسی کو تکلیف پہنچانا۔

الْوَجَّاحُ: چمکانا۔ (الْوَجَّاحُ وَالْوَجَّاحُ) پردہ۔

الْوَجَّحَ: غار کے مانند۔

الْمُؤَجَّجُ: مفع۔ جائے پناہ۔ چمکانا۔ (۔) وَالْوَجَّجِيحُ: مضبوط و گھٹ بنا ہوا کپڑا۔

الْمُؤَجَّجُحُ مِنَ الْأَبْوَابِ: بند کیا ہوا دروازہ۔

وَجَدَ وَوَجَدَ وَيَجِدُ وَجَدًا وَوَجْدًا وَجِدَّةً وَوَجُودًا وَوَجْدَانًا وَاجْدَانًا الْمَظْلُوبُ: پانا۔ ضائع ہونے کے بعد کامیاب ہونا۔ کہا جاتا ہے "وَجَدْتُ الضَّالَّةَ" میں نے تم شدہ کو پایا و جَدَّ أفعال القلوب میں سے بھی ہے اس صورت میں دو مفعول کو نصب دیتا ہے جیسے وَجَدْتُ كَلَامَكَ ضَائِدًا اور اس کا مصدر وُجِدَ ہے۔

وَجَدَ يَجِدُ وَجْدًا وَوَجْدًا: وَجْدَةٌ الْمَالُ وَنَحْوُهُ: مستغنی ہونا۔

وَجَدَ يَجِدُ وَيَجِدُ وَجْدًا وَوَجْدَةً وَوَجْدَانًا عَلَيْهِ: غضبناک ہونا (۔) وَوَجْدًا بِفُلَانٍ: بہت محبت کرنا۔ لَهُ: غمگین ہونا۔

وَجَدَ يَجِدُ وَوَجْدًا: بہت محبت کرنا۔ لَهُ: غمگین ہونا۔

وَجَدَ وَوَجْدًا الشُّيْ عَنْ عَدَمِ: نیست سے بہت ہونا۔ صفت مَوْجُودٌ۔

أَوْجَدَ إِيجَادًا اللَّهُ الشُّيْ: موجود کرنا۔

فَلَانًا: غنی کرنا۔ قوی کرنا۔ هُ مَظْلُومٌ: کامیاب کرنا۔ فتح مند کرنا۔ حاصل کرنا۔ أَوْجَدَهُ عَلَى الْأَمْرِ مجبور کرنا۔ أَوْجَدَهُ إِلَيْهِ: مضطر کرنا۔

تَوَجَّدَ بِهِ: محبت کرنا۔ لَهُ: غمگین ہونا۔ السَّهْوُ وَنَحْوُهُ: بے خوابی وغیرہ کی شکایت کرنا۔

تَوَاجَّدَ: محبت یا خوشی یا غم یا تکلیف ظاہر کرنا۔ الْوَجْدُ: مہ پانی جمع ہونے کی جگہ ج و جَاؤا۔

وَالْوَجْدُ وَالْوَجْدُ: محبت۔ خوشی۔ تو انگری۔ قدرت۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مِنْ وَجْدِي" یہ میری قدرت میں ہے۔

الْوَجْدَةُ: مہ تو انگری۔ قدرت۔ الْوَجْدَانُ: مہ۔ اور بعضوں کے نزدیک بمعنی نفس اور اس کی باطنی قوتیں۔

الْوَجْدَانِي: ہر وہ چیز جس کو انسان اپنے نفس سے محسوس کرے۔ جو چیزیں باطنی قوتوں سے محسوس ہوں۔ ج و جَدَّ الْبَيِّنَاتُ۔

الْوَجْدُ: فا۔ تو انگری۔ محب اور کہا جاتا ہے اَنَا وَاجِدُ لِلشُّيْ: میں اس پر قادر ہوں۔ الْوَجْدُ: بہت غضبناک۔

الْوَجْدُ: ہموار زمین۔ ج و جَدَّانُ: الْوَجُودُ: مہ بہت عدم کا خلاف۔

الْوَجُودِيُّ: عدی کا خلاف۔

أَوْجَدَهُ إِلَى كَذَا: مضطر کرنا۔ عَلَيْهِ: مجبور کرنا۔

الْوَجْدُ: پھاڑا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے اور بقول بعض حوض ج و جَادُوا وَوَجْدَانُ: مَكانٌ وَجْدٌ: بہت گڑھوں والی۔ یا بہت حوض والی جگہ۔

وَجْرٌ يَجْرُ وَجْرًا مِنْ كَذَا: خوف کرنا۔ صفت مذکر و جَوْرٌ وَوَجْرٌ: صفت مؤنث و جَوْرَةٌ وَوَجْرَاءُ۔

وَجْرَةٌ يَجْرُ وَوَجْرًا: مُنْهٌ فِي دَوَائِلِهَا وَوَجْرٌ فَلَانًا: ناپسندیدہ یا ہنسنا۔

أَوْجَرَهُ إِيجَارًا: الْوَجُورُ: مُنْهٌ فِي دَوَائِلِهَا هُ الرَّمْعُ: مُنْهٌ فِي نِيْزِهِمَا۔

تَوَجَّرَ الْمَاءُ: ناپسندیدگی سے چمکانا۔

الدَّوَاءُ: دو کو تھوڑا تھوڑا لگانا۔

إِتَّجَرَ: وَوَجْرٌ سے علاج کرنا (اس کی اصل

الأَوْجُمُ اسم تفضيل - أَوْجُمُ الزَّمَلِ ريت کا بڑا قلم۔
 الْوَجْمَةُ ایک مرتبہ کی خوراک۔
 الْوَجْمَةُ ننگ و عار۔
 الْوَجِيمُ مِنَ الْإِيَامِ سخت گرم دن۔
 الْوَجِيحَةُ کیوں یا چارہ۔ آفت رسیدہ۔
 الْمِجْحَمَةُ دھوپ کی موگری۔
 وَجْنٌ يَجْنُ وَجْنًا بِالشَّىءِ پھینکنا۔
 الْوَدْدُ کوئی ٹھونکا۔ بِه الْأَرْضِ زمین پر پگنا۔
 الْقَصَارُ الثُّوبُ دھوپ کا پڑے کو پھوڑنا۔
 وَجْنُ الْجِلْدِ کھال کو نرم ہونے کیلئے کوٹنا۔
 تَوَجَّنَ ذَلِيلٌ هَوْنَا فَرَوْتِي كَرْنَا۔
 الْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ
 وَالْوَجْنَةُ وَالْأَجْنَةُ وَالْأَجْنَةُ وَالْأَجْنَةُ رخصارہ
 میں اُٹھری ہوئی جگہ ج وَجْنَاتُ۔
 الْوَجْنُ وَالْوَجْنُ وَالْوَجْنُ پتھرلی سخت
 زمین۔
 الْوَجِينُ وادی کا کنارہ۔ سامنے کی قدرے
 اونچی اور پتھرلی زمین ج وَجْنٌ۔
 الْأَوْجِنُ سخت پہاڑ۔ بڑے رخصاروں والا۔
 مَوْتٌ وَجْنَاءُ نَاقَةٌ وَجْنَاءُ سخت اونٹنی۔
 الْمَوْجِنُ بڑے رخصاروں والا۔ بہت گوشت
 والا موٹا۔
 الْمِجْحَمَةُ موگری۔ ج مَيَاجِنُ وَمَوَاجِنُ۔
 الْمَوْجُونُ مغم۔ شرمندہ۔
 الْمَوْجُونَةُ دھوپ کا آراستہ کمرہ۔
 وَجَةٌ يَجُو وَجْهًا فَلَانًا مُدَّ بِرَمَانٍ اور رو
 کرنا۔ لوگوں کے نزدیک وجاہت میں بڑھ جانا۔
 وَجَةٌ يُوْجُو وَجَاهَةً وَجِيهٌ هُوْنَا صاحب
 وجاہت ہونا۔
 وَجَةٌ إِلَى فَلَانٍ کسی کے پاس جانا۔ هَإِلَى
 فَلَانٍ کسی کے پاس بھیجنا۔ هَإِلَى أَيُّوْرٍ باعزت
 بنانا۔ وَجَّةُ الشَّىءِ کسی طرف پھیرنا۔
 الْقَوْمُ الظَّرِيْقُ راستہ پر چلنا اور نشان واضح کرنا۔
 لِعَبْدِيهِ غلام سے اپنے مرنے کے بعد آزادی
 کیلئے کرنا۔ الْمَطْرُ الْأَرْضِ ایک روش کی
 بارش ہونا۔ سطح زمین کو صاف کر دینا اور نشان

ذال دنیا۔ الْوَيْحُ الْحَضِيّ ہوا کا ٹکڑیوں کو
 اڑانا۔ الْمَيْتُ میت کو قبلہ رو کرنا۔
 أَوْجُهُ أَيْجَاهَا الرَّجُلُ وجیہ بنانا۔ وجیہ پانا۔ رو
 کرنا۔
 وَجْهَةٌ وَجَاهَةٌ وَجَاهَةٌ رُوْدَرُ رُوْدَرٌ متبادلہ
 کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَقِيَهُ مُوْجْهَةٌ وَوَجَاهَةٌ" اس
 نے اس سے رُوْدَرُ رُوْمَاتَاتِ کی۔
 تَوَجَّهَ إِلَيْهِ متوجہ ہونا اور قصد کرنا۔
 الْجَيْشُ نکست گمانا۔ الشَّيْخُ بِيْضًا ہونا۔
 تَوَاجَهُ الرَّجُلَانِ أَوِ الْمُنْزِلَانِ ایک دوسرے
 کے مقابل ہونا۔
 إِتَّجَهَ إِلَيْهِ متوجہ ہونا۔ لَهُ زَائِي خيال
 سوچنا۔
 الْوَجْهُ چہرہ۔ ج أَوْجُهُ وَوَجُوهُهُ وَأَجْوُهُ وَوَجُهُ
 الثُّوبِ وَنَحْوِهِ کپڑے وغیرہ کا سامنے کا پہلو۔
 وَجُهُ الدَّهْرِ زمانہ کا اول۔ کہا جاتا ہے "سَكَانَ
 ذَلِكَ عَلَيَّ وَوَجُهُ الدَّهْرِ" یہ زمانے کے شروع
 میں تھا۔
 الْوَجْهُ مہ۔ جانب۔ تصدو بیت جس عمل وغیرہ
 کی طرف انسان متوجہ ہو۔ عزت و مرتبہ وَجُهُ
 الْكَلَامِ مقصود کلام۔ رضامندی۔ کہا جاتا ہے
 "فَعَلَّ ذَلِكَ لَوْجُهُ اللّهِ" اس نے اس فعل کو اللہ
 کی رضامندی کیلئے کیا۔ "وَصَرَفَ وَجْهَ الْأَمْرِ
 عَنِّي" اس نے کام کی اچھی تدبیر کی۔ "وَمَضَى
 عَلَيَّ وَجْهَهُ" وہ لاہروائی سے گزر گیا اور "إِيْتَصَّ
 وَجْهَهُ وَيَتَصَّ اللّهُ وَجْهَهُ" اس وقت کہا جاتا ہے
 جبکہ کوئی فعل محمود کرے اور اسی طرح اِسْوَدَّ
 وَجْهَهُ وَسَوَّدَ اللّهُ وَجْهَهُ" اس وقت بولا جاتا
 ہے جبکہ فعل مذموم کرے۔ ج وَجُوْفُ: سردار
 قوم اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ وَجْهٌ" یعنی صاحب
 عزت و مرتبہ مرد۔ الْوَجْهُ: نوع و قسم جیسے
 "الْكَلَامُ لَهُ عَالِي وَوَجُوهُهُ عَلَيَّ أَيْمَةٌ وَوَجُوهُهُ
 وَيَتَصَّ لِكَلَامِكَ وَجْهٌ" یعنی تمہارے کلام کیلئے
 صحت کی کوئی صورت نہیں "وَالْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ
 كَذَا" یعنی ظاہری قصد ہے کہ ایسا ہو "وَالِهَذَا
 الْقَوْلُ وَجْهٌ" یعنی اس قول کے لیے ماخذ ہے
 "وَفَلَانٌ أَحْسَنُ الْقَوْمِ وَجْهًا" فلاں قوم کے
 لحاظ سے بہتر حال میں ہے اس لیے کہ عموماً حسن

ظاہر حسن باطن پر دلالت کرتا ہے "وَصَرَفَ
 الشَّىءَ عَنِّ وَجْهَهُ" اس نے چیز کو اس کے
 طریقے سے پھیر دیا "رَجُلٌ ذُو وَجْهَيْنِ" جبکہ
 ضمیر کے خلاف ظاہر کرے۔
 الْوَجْهُ وَالْوَجْهُ تموز پانی۔
 الْوَجْهُ وَالْوَجْهُ جانب۔ گوشہ۔
 الْوَجْهُ وَالْوَجْهُ صاحب عزت و مرتبہ۔
 الْجَهَّةُ وَالْجَهَّةُ وَالْجَهَّةُ ج جَهَاتُ وَ
 جَهَاتُ وَجَهَاتُ وَالْوَجْهَةُ وَالْوَجْهَةُ۔
 جانب۔ گوشہ جس کی طرف تم توجہ کرو۔ اور کہا
 جاتا ہے "ضَلَّ وَجْهَهُ أَغْرَهُ" وہ اپنے مقصد سے
 بچل گیا۔
 الْوَجَاهَةُ مہ۔ مرتبہ۔ عزت۔ حرمت۔ کہا جاتا
 ہے "لَهُ وَجَاهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ" اس کی لوگوں کے
 نزدیک عزت و حرمت ہے۔
 التَّوَجُّجُ مہ۔ لَفِي عِلْمِ الْعَرُوضِ:
 روی متبدل کے عمل کے حرف کی حرکت کا
 اختلاف۔ روی مطلق اور تاسیس کار میمان۔ کہا
 جاتا ہے "هَمْ وَجَاهُ الْفِي" وہ ایک ہزار کے
 قریب ہیں۔ کہا جاتا ہے وَجَاهَهُ وَوَجَاهَهُ
 وَوَجَاهَهُ وَوَجَاهَهُ وَوَجَاهَهُ وَوَجَاهَهُ۔
 متبادلہ اور کہا جاتا ہے "فَعَدَّ ذُو تَجَاهَهُ وَ
 وَجَاهَهُ" وہ لوگ اس کے سامنے بیٹھے۔
 الْوَجِيهَةُ سردار قوم۔ آہرو والا۔ مرتبہ والا ج
 وَجْهَاءُ مَوْتٌ وَجِيهَةٌ ج وَجِيهَاتٌ وَ
 وَجَائِهِ الْوَجِيهَةُ مِنَ الْأَكْسِيَةِ: دورخی چادر۔
 الْوَجِيهَةُ پاؤں کے مل پیدا ہونے والا پتہ۔
 الْوَجِيهَةُ وَجِيهَةُ كَامُوْنَتُ ایک قسم کا دورخ
 مہرہ جس میں صورت نظر آتی ہے اور بسا اوقات
 اس کو نظرید سے بننے یا حصول عزت کے لیے
 گردن میں لٹکتے ہیں۔
 الْأَوْجُهُ اسم تفضيل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَوْجُهُ
 قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم میں زیادہ مرتبہ والا ہے۔ کہا جاتا
 ہے نَظَرُوا إِلَيْهِ بِأَوْجِهِ سُؤْيٌ یعنی انہوں نے
 مجھ کو بڑی نظر سے دیکھا۔ أَوْجِيهَةٌ جمع
 وَجْهٌ یعنی تغیر ہے۔
 الْمَوْجِيهَةُ مرتبہ والا۔ مِنَ الْكِسَاءِ: دو
 رخنی چادر۔ ضَمِي مَوْجِيهَةٌ ایک روش پر بنی ہوئی

الوَّاحِد۔ ایک مؤنث۔ وَاحِدَةٌ۔ تشبیہ
وَاحِدَانِ رَجٍ وَاحِدُونَ۔ لاثانی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
وَاحِدٌ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم میں لاثانی ہے یعنی علم و
فضیلت وغیرہ میں بڑھا ہوا ہے رَجٌ وَاحِدَانِ وَ
أَحْدَانِ اور وَاحِدٌ كَأَسْتِمَالِ أَحَدٌ کے معنی میں
ہے یعنی یکساں لاثانی ہے۔ ۱۶۷ حسنی میں اسی معنی
کے لحاظ سے ہے اور کبھی عدد کی صفت میں آتا
ہے جیسے أَلْفٌ وَاحِدٌ وَعَشْرَةٌ وَوَاحِدَةٌ۔

الوَّاحِد۔ اکیلا۔

الأَوْحَد۔ واحد سے صفت کا صیغہ ہے اور اسی
سے ہے "اللَّهُ الْأَوْحَدُ" یعنی اللہ وحدانیت والا
ہے اور کہا جاتا ہے "هُوَ الْأَوْحَدُ أَهْلُ زَمَانِهِ" وہ
اپنے زمانے والوں میں بے نظیر ہے رَجٌ أَحْدَانِ۔
وَلَسْتُ لَفِي هَذَا الْأَمْرِ بِأَوْحَدٍ" میں اس کام
میں اکیلا نہیں ہوں اور مؤنث کیلئے وَحْدَاءُ کا
صیغہ نہیں آتا۔

وَاحِدٌ وَأَحَادٌ وَمَوْحِدٌ۔ ایک ایک واحد واحد
سے معدول ہے۔ تم کہتے ہو "جَاءَهُ وَوَاحِدٌ
وَأَحَادٌ وَمَوْحِدٌ" لوگ ایک ایک کر کے آئے
اور ایسا ہی مؤنث کیلئے بھی۔ اور یہ عدل اور
صفت کی وجہ سے غیر مصرف ہیں۔

التَّوْحِيدُ۔ م۔ باری تعالیٰ کی وحدانیت کا
اعتقاد۔

المَوْحِدُ۔ فَا۔ اللہ کی وحدانیت کا معتقد۔
المَوْحِدِينَ الْمُحَرِّفِينَ: ایک لفظ والا حرف
جیسے ب۔

المِنْحَادُ۔ اکیلا تیلہ۔ رَجٌ مَوْاحِدٌ۔

وَحَرٌّ يَحْرُوقُ وَحَرٌّ يَحْرُوقُ وَحَرٌّ يَحْرُوقُ وَحَرٌّ يَحْرُوقُ
غضبناک ہونا اور کینہ رکھنا۔ صفت وَحَرٌّ۔

وَحَرٌّ يَحْرُوقُ وَحَرٌّ يَحْرُوقُ وَحَرٌّ يَحْرُوقُ وَحَرٌّ يَحْرُوقُ
ایک زہریلا جانور۔ زہر آلود چیز کو کھانا پینا اور زہر
کا اثر کرنا۔ الطَّعَامُ: وحہ سے زہر آلود ہونا۔
صفت وَحَرٌّ۔

أَوْحَرَةٌ۔ غیظ و غضب میں ڈالنے والی باتیں
سانا۔ أَوْحَرَتِ الْوَحْرَةَ الطَّعَامُ: زہر آلود کر دینا
کہ جس کے کھانے والے کو قتل آنے لگے یا
پیٹ چلنے لگے۔

الْوَحْرُ۔ کینہ۔ سخت غضب۔ خیانت۔

جَاءَهُ وَحْدَهُ" میں نے اس کو اکیلا دیکھا یا وہ اکیلا
آیا۔ مصدر ہونے کی وجہ سے اس کا تشبیہ جمع نہیں
آتا اور یہ حالت کی وجہ سے۔ مقدر منفرد منصوب
ہے اور بعضوں کے نزدیک اسم متکسر ہے کہا جاتا
ہے "جَلَسَ وَحْدَهُ وَعَلَى وَحْدِهِ وَعَلَى
وَحْدِهِمَا وَحْدَ بَيْتِهِمَا وَوَحْدَهُمْ" اور بعضوں
کے نزدیک اس کی اضافت صرف فَلَانٌ لَيْسَ بِجِ
وَحْدِهِ بصورت مدح اور غیبی و وحیدہ یا جھجھیش
وَحْدِهِ بصورت ذم میں ہوتی ہے اور کبھی رَجُلٌ
وَحْدِهِ بھی کہتے ہیں۔ رَجُلٌ وَحْدٌ: تھامرا۔ آجینز
الْوَحْدُ: آجیر خاص۔

الْوَأْحْدَانِيُّ: اکیلا۔

الْوَأْحْدَانِيَّةُ: اکیلا ہونے کی حالت۔

الْحِدَّةُ۔ م۔ کہا جاتا ہے "بَقِيَ عَلَيَّ حِدَّتِهِ" وہ
تھا باقی رہا۔ "وَفَعَلَهُ عَلَيَّ ذَاتَ حِدَّتِهِ وَمِنْ ذَاتِ
حِدَّتِهِ وَمِنْ ذِي حِدَّتِهِ" اس نے اس کو خو، بخو،
بغیر کسی کی مدد و رائے کے کیا۔

الْوَأْحْدَةُ۔ م۔ تھالی۔

الْوَحْدُ وَالْوَجْدُ۔ اکیلا۔ مؤنث وَحْدَةٌ وَ
وَاحِدَةٌ۔

الأَوْحَدُ۔ اکیلا۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ حَادٍ
مرد۔ اس کی اصل وَحْدٌ ہے داؤد و بنوہ سے بدل دیا
گیا ہے "الأَوْحَدُ" لاثانی۔ بے نظیر اور لفظ احد دو
موتقوں پر واحد کا مرادف ہے۔ ایک باری تعالیٰ کی
صفت میں کہا جاتا ہے "هُوَ الْوَأْحْدُ هُوَ الْأَوْحَدُ"
اور اس معنی کے لحاظ سے باری تعالیٰ کے علاوہ کسی
دوسرے کی صفت واقع نہیں ہوتا۔

دوسرے ۱۶۷ عدد میں جیسے أَحَدٌ وَعَشْرُونَ وَ
وَاحِدٌ وَعَشْرُونَ۔ اور لفظ أَحَدٌ نہ کیلئے آتا ہے
کبھی مؤنث کیلئے بھی اطلاق ہوتا ہے جیسے "لَمَسْتُنَّ
كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ" اس وقت شعی کے سنے میں
ہے اور احد کی تائیفہ احدی ہے۔ اور اس کا
استعمال دوسرے کے ساتھ مل کر ہوتا ہے جیسے
إِحْدَى وَإِحْدَى وَإِحْدَى وَعَشْرَةٌ وَإِحْدَى
بِنَاتِ حَلْبِي: مصیبت۔ سانپ اور کہا جاتا ہے "هُوَ
إِبْنُ أَحْدَاهَا" وہ شریف ماں باپ والا ہے (آدی
ہو یا اونٹ) ضمیر اموات کی طرف راجع ہے۔ يَوْمٌ
الأَوْحِدُ: اتوار کا دن۔ رَجٌ أَحَادُ۔

جَزْزِ
المَوْاجَهَةُ۔ م۔ کسی کا کلام یا چہرے سے
استقبال کرنا۔

وَجِي يَجِي وَجِيَا الرَّجُلُ: ناکارہ و گھلپٹا۔
وَجِي يُوَجِي وَجِي وَتَوَجَّى الْمَاضِي: ننگے
پاؤں ہونا یا قدم گستا۔ صفت وَجٍ وَوَجِيٍّ۔
مؤنث وَجِيَّةٌ وَوَجِيَاءٌ۔

أَوْجِي إِيغَاءُ: الرَّجُلُ: پاؤں گستا۔ رینا
عَلَيْهِ: نکل کرنا۔ عَنِ كَذَا: اعراض کرنا

الشَّيْءُ: دور کرنا۔ فَلَانًا: حاجت سے ہٹا
رینا۔ کہا جاتا ہے "أَوْجَاهُ عَنَّهُ" اس نے اس کو
اس سے ہٹا دیا "وَأَوْجَيْتُ عَنْكُمْ ظَلَمَ فَلَانٌ"
میں نے تم سے فلاں کے ظلم کو دور کر دیا۔ أَوْجِي
الرَّجُلُ: حاجت کیلئے آنا اور ناکام واپس ہونا اور
کہا جاتا ہے "مَسَانٌ حَاجَةٌ لَهَا وَوَجِي" اس نے
حاجت کا سوال کیا اور محروم رہا۔

الْوَجَاءُ: چھوٹی بوری۔ رَجٌ أَوْجِيَّةٌ۔

الْوَجِي: گھلپٹا ناکارہ۔

الْوَجَابُ: اونٹ کی ایک بیماری کا نام۔

وَجِيحٌ يُوَجِيحُ وَحَجَابُهُ: پناہ لینا۔

أَوْحَجَهُ: پناہ دینا۔

الْوَجْحُ: جانے پناہ۔

وَحَدٌّ يَحْدُ وَحَدٌّ وَحَدٌّ وَحَدٌّ وَحَدٌّ وَحَدٌّ
وَ وَحْدٌ يَحْدُ وَحَدَّةٌ وَ وَحْدَةٌ وَحَدَّةٌ اکیلا ہونا۔
صفت وَحْدٌ۔

وَحْدَةٌ تَوْحِيدًا وَ أَحَدَةٌ: ایک بناؤ وَحْدَ اللَّهِ
تَعَالَى: ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ یکتا کہنا یا لا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ کہنا۔

أَوْحَدَهُ لِأَعْدَائِهِ: چھوڑ دینا۔ اکیلا چھوڑ دینا۔ یکتا جانا
أَوْحَدَهُ لِلْأَعْدَاءِ: چھوڑ دینا۔ اَوْحَدَتِ الشَّأْ
کبری کا ایک پتہ جتنا۔ صفت مَوْحِدٌ۔

تَوْحَدٌ۔ تماثلی رہنا۔ پڑا یہ: اپنی رائے میں
اکیلا رہنا۔ تَوْحَدَهُ بِالْفَضْلِ: کسی پر مہربانی کرنا
اور دوسرے کی طرف سپرد نہ کرنا۔

إِتَّحَدَ الشَّيْئَانُ: ایک ہونا۔ الشَّيْءُ
بِالشَّيْءِ: ایک چیز کا دوسری چیز سے گھل مل جانا
القَوْمُ: مشتق ہونا۔

الْوَحْدُ۔ م۔ کہا جاتا ہے "زَأَيْتُهُ وَحْدَهُ أَوْ"

الْوَحْر - مہ - غصہ - کینہ - سبکی سوزشیں -
الْوَحْرَة - چھیلی کے مانند ایک چھوٹا سا جانور
جس کے متعلق مشہور ہے کہ جس چیز پر چلتا ہے
وہ زہر آلود ہو جاتی ہے۔ پست قد عورت یا اونٹ
ج وَحْرًا امْرَأَةً وَحْرَةً: سیاہ رنگ کی بد صورت
عورت یا سرخ رنگ کی پست قد عورت -
وَحْشٌ يَحْشُ وَحْشًا يَبْزُوهُ أَوْ سِلَاحَهُ:
کپڑا یا ہتھیار بھاگنے میں خوف کی وجہ سے
پھینک دینا -

أَوْحَشَ إِيْحَاشًا الْمَكَانَ: دیران ہونا -
الْمَكَانَ: خالی پانا۔ الرَّجُلُ: بھوکا ہونا -
بے توشہ ہونا۔ الرَّجُلُ: وحشت محسوس کرنا -
تَوْحَّشَ: وحشی کے مانند ہونا۔ بھوک کی وجہ
سے پیٹ خالی ہونا۔ کپڑے پھینکانا۔ الْمَكَانُ
دیران ہونا -

اسْتَوْحَشَ: وحشت محسوس کرنا۔ صَفْهُ
بِأَنْسٍ نَهَ بَوَانَا الْمَكَانَ: دیران ہونا -

الْوَحْشُ - مہ - جنگلی جانور۔ ج وَحْشًا وَ
وَحْشَانٍ وَاحِدٌ وَحْشِيٌّ - جَمَازٌ وَحْشِيٌّ
وَجَمَازٌ وَحْشِيٌّ: جنگلی گدھا۔ وَبَقْرٌ الْوَحْشِيَّ:
ٹیل گائے۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ وَحْشٌ" دیران
وخلال جگہ "وَمَنْشِيٌّ فِي الْأَرْضِ وَحْشًا" وہ تجھا
گیا "وَبَاتَ وَحْشًا" اس نے بھوکے رات
گزاری۔ اور جمع کی صورت میں تم کو گے "هَمْ
أَوْحَاشٌ" اور کہا جاتا ہے "هَوَّ مِنْ وَحْشِ
النَّاسِ" وہ سفلہ لوگوں میں سے ہے -

الْوَحْشَةُ: تھالی۔ تھالی کی وجہ سے خوف یا
طبیعت کا منتقبض ہونا۔ غم۔ بے تعلقی۔ دوستی -
محبت کی دوری۔ دیران زمین -

الْوَحْشِيَّةُ: وحش کا واحد۔ لوگوں سے
بدکنے والا۔ ہر چیز کا دایاں پہلو۔ مِنَ الْقَوَمِ
کمان کی پشت۔ الْوَحْشِيَّةُ مِنَ التَّيْنِ وَ
نَحْوِهِ: جنگلی انجیر -

الْوَحْشِيَّةُ: وحشی کا مؤنث۔ تیز ہوا جو
کپڑوں میں داخل ہو جائے -

الْوَحْشِيَّةُ: جنگلی جانور۔ الْجَائِبُ الْوَحْشِيَّةُ
دایاں پہلو -

الْوَحْشَانُ: غمگین۔ ج وَحَاشِيٌّ -

أَرْضٌ مَوْحُوشَةٌ: جنگلی جانوروں والی زمین -
وَحْفٌ يَحْفُ وَحْفًا السَّيْرُ وَالرَّجُلُ: زمین
پر گر پڑنا۔ يَحْفَانَا: مینہ۔ قریب ہونا۔ إِلَيْهِ:
توجہ کرنا۔ أَلِي كَذَا: تیز چلنا -

وَحْفٌ يَوْحِفُ وَحْفًا وَوَحْفٌ يَوْحِفُ
وَحَافَةً وَوَحُوفَةً السَّعْوُ وَالنَّبَاتُ: گنجان ہونا -
وَحْفٌ: تیز چلنا۔ زمین پر گر پڑنا۔ فَلَانًا:
ڈنڈے سے مارنا -

أَوْحَفَ إِيْحَافًا: تیز چلنا۔ جلدی جانا -
الْوَحْفُ - مہ - خوبصورت گنجان کالے بال -
تازہ گھاس (۔ وَالْوَاحِفُ) مِنَ الْأَجْبِيحَةِ:
بست پروں والا بازو -

الْوَحْفُ - مہ - خوبصورت گنجان بال -
الْوَحْفَةُ: وحف کا اسم مرہ۔ کالا پتھر گول۔ بلند
کالی زمین۔ آواز۔ ج وَحَافٌ -

الْوَحْفَاءُ مِنَ الْأَرْضِ: وہ زمین جو گلستان نہ
ہو اور اس میں کالے پتھر ہوں۔ سرخ زمین۔ ج
وَحَافِيٌّ -

الْمَوْحِفُ: اونٹوں کے بیٹھے کی جگہ ج
مَوْاحِفٌ -

الْمَيْحَافُ مِنَ التُّوقِ: بیشہ اپنے تھان پر رہنے
والی اونٹنی۔ ج مَوْاحِفٌ -

بِعَيْتٍ مَوْحِفٌ: ڈبلا اونٹ -

وَجَلَّ يَوْحِلُ وَحَلًّا وَمَوْحَلًا: کپڑے میں پڑنا -
أَوْحَلَهُ: کپڑے میں ڈالنا۔ هُ شَرًّا: برائی میں
پھنسا دینا -

وَاحَلَهُ مَوْاحِلَةً: کپڑے میں مقابلہ کرنا -
کہا جاتا ہے "وَاحَلَهُ مَوْاحِلَةً" اس نے کپڑے میں
گھسنے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا -

إِتْحَلَّ إِتْحَالًا لَيْ يَمِينِهِ: قسم کھانے میں
اشعار کرنا -

تَوْحَلٌ: کپڑے سے لت پت ہونا (۔
وَاسْتَوْحَلَ الْمَكَانَ: کپڑے والی ہونا -

الْوَحْلُ: بِالتَّشْكِينِ: وحل میں ایک
زوی لغت -

الْوَحْلُ: کپڑے ج اور حال و وحول -
الْوَحْلُ: کپڑے سے لت پت -

الْمَوْحِلُ: کپڑے کی جگہ۔ کپڑے میں گرنا۔ یہ وحل

سے اسم ہے -

وَحَمَيْتُ الْمَرْأَةُ تَحِمُّ وَتَوْحَمٌ وَحَمًا وَ
تَوْحَمَتْ حَامِلَةٌ ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں
کے کھانے کا خواہش مند ہونا۔ کھانے کی خواہش
بدل جانا یا کم ہو جانا۔ صفت وَحْمِيٌّ ج وَحَامٌ وَ
وَحَامِيٌّ - اور اسی سے مثال ہے۔ "وَحْمِيٌّ
وَلَا حَمِيلٌ" اس لالچی کے متعلق یوتے ہیں جو بغیر
ضرورت کے بہت سوال کرے -

وَحِمَ الشَّيْءُ: خواہش کرنا -
وَحَمْتُ وَحْمَةً: ارادہ کرنا -
وَحْمُ الْحَبْلِي: حاملہ کو خواہش کے مطابق
کھانا۔ لَهَا: حاملہ کی خواہش کے مطابق ذبح
کرنا یا پیش کرنا -

الْوَحْمُ - مہ - حاملہ کی خواہش۔ پرنہ کی
پہلے پھاڑا ہٹ اور کہا جاتا ہے "لَيْلَةُ ذَاتِ وَحْمٍ"
بہت گرم رات -

الْوَحَامُ وَالْوَحَامُ: حاملہ کی خواہش -
الْوَحِيمُ: بہت گرم دن -

وَحْنٌ يَحْنُ وَوَحْنٌ يَوْحِنُ وَحَنًا وَوَحْنَةً:
عَنْ فَلَانٍ: کینہ رکھنا -

تَوْحَنٌ: ذلیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔ بڑے پیٹ
والا ہونا -

الْوَحْنَةُ: اسم مرہ۔ پھسلانے والی کپڑے -
وَحْوَحٌ: آواز گونگوتہ نکالنا۔ سخت سردی کی

وجہ سے ہاتھوں میں پھونکنا اور اُح یا حو
کہنا -

تَوْحُوخٌ: الظَّلِيمُ فَوْقَ النَّبِيِّ: شتر مرغ کا
اندوں پر شینگی ظاہر کرنا -

الْوَحْوُوحُ وَالْوَحْوُوحُ: قوی۔ کتا۔ آواز نکالنے
والا۔ الْوَحْوُوحُ: جلد باز تیز آدمی۔ ہلاک پہلکا آدمی -

ج وَحَاوِحٌ: الْوَحْوُوحُ: سردار اور رئیس ج
وَحَاوِيحٌ -

وَحِيٌّ يَحِيٌّ وَحِيًّا أَلِي فَلَانٍ: اشارہ کرنا -
پتھا ہر بھیجا۔ إِلَيْهِ أَوْ وَحِيًّا إِلَيْهِ كَلَامًا:
چپکے سے گفتگو کرنا یا دوسروں سے پوشیدہ بات کہنا

اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَذَا: دل میں ڈالنا۔
الْكِتَابَاتُ: لکھنا۔ اللَّذِيحَةُ: جلدی سے

ذبح کرنا (۔ وَحْيًا وَوَحِيٌّ وَوَحَاً وَتَوْحِيٌّ)

تھیلا۔	الْوَخْرُ - مہ - ہر چیز کا تھوڑا۔ اور کہا جاتا ہے	جلدی کرنا۔
الْوَجِيفَةُ - ستودہ مٹوہ جو گوندھا جائے۔	”جَاؤْ أَوْ خَوْ أَوْ خَرًا“ چار چار آئے۔	أَوْحَى إِلَيْهَا إِلَى فَلَانٍ : اشارہ کرنا۔
الْمَوْجِيفُ - بیوقوف۔	الْوَجِيفُ - شہد کا ٹرید۔	دوسروں سے چسپا کر بات کرنا۔ برا لگینے کرنا
الْمَجِيفُ - ستودہ مٹوہ سے کارترن۔	وَوَخْشٌ يَوْخِشُ وَخُوشَةٌ وَوَخَاشَةٌ	الْكِتَابُ : لکھا۔۔۔ نَفْسُهُ : خوفزدہ ہونا
وَوَخْمٌ يَوْخِمُ وَوَخَامَةٌ وَوُخُومَةٌ وَوُخُومًا	وَوُخُوشًا الشَّيْءُ : کٹا اور ردی ہونا	الزَّجَلُ : غمگینی کے بعد بادشاہ ہونا
الْمَكَانُ أَوْ الطَّعَامُ : مضر صحت یا ناقابل ہضم	زَّاسُ الْكَبِشِ : خشک ہونا اور سکلنا۔	الْقَوْمُ : چلانا۔۔۔ الْعَمَلُ : جلدی کرنا
ہونا۔	وَوَخْشُ الشَّيْءِ : کٹا اور ردی کرنا	الدَّوَاءُ الْعَمُوتُ : جلدی موت واقع کرنا۔
وَوَخْمَةٌ يَوْخِمُهُ وَوَخْمًا : زیادہ بد ہضمی والا ہونا۔	الْعَطِيطَةُ : کم رہنا۔	وَوَحْيٌ تَوْحِيَةٌ : دُيُنِحَتْ : جلدی ذبح کرنا۔
وَوَخْمٌ يَوْخِمُ وَوَخْمًا وَوَأَخْمٌ : مِن و عَنهُ۔	أَوْخِشَ لَهُ بِالْعَطِيطَةِ : کم دینا۔۔۔ فِی عِزِّهِ بے عزتی کرنا۔۔۔ الشَّيْءُ : غلط لطف	وَوَخَاةٌ : جلدی کرنا۔۔۔ کما جاتا ہے ”وَوَحْيُ الدَّوَاءِ الْعَمُوتِ“ دوڑنے فوراً موت واقع کی۔
بد ہضمی ہونا۔	کرنا۔	تَوَاحِي تَوَاحِيَةُ الْقَوْمِ : بعض کا بعض کے ساتھ جلدی کرنا۔
وَوَاحِمَةٌ مُوَاحِمَةٌ فَوَاحِمَةٌ (ش) وَوَخْمًا	الْوَخْشُ - ہر چیز کا ردی۔ کہنے لوگ۔ لفظ واحد	إِسْتَوْحَاةٌ : پکارنا۔۔۔ جلدی کرنا۔۔۔ هُ الشَّيْءُ : دریافت کرنا۔
بد ہضمی میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔	ی جمع مذکر مؤنث سب کیلئے مستعمل ہے اور کبھی	الْوَحْيُ - مہ - لکھا ہوا۔ پیغام۔ ہر وہ چیز جو
أَخْمَةٌ أَوْخَامًا الطَّعَامُ : بد ہضمی میں مبتلا کرنا	وَوَاحِشٌ وَأَوْخَاشٌ جمع آتی ہے۔	دوسرے کو معلوم ہونے کیلئے تم پیش کرو۔ پھر
(اس کی اصل أَوْخَمَةٌ ہے اور اصل کا استعمال	وَوَخْصٌ يَوْخِصُ وَوُخُوشًا : حرکت کرنا۔	غالب طور پر انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی
نادر ہے)	أَوْخِصَّ إِلَيْهَا صَافِلَانِ بِالْعَطِيطَةِ : کم رہنا۔	طرف سے جو اتفاق ہو اس پر استعمال ہونے لگا
وَوَخْمٌ وَوَأَخْمٌ : مضر صحت بنانا۔	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	جس کی وحی ہو (وَالْوَحَاةُ) آواز۔
تَوَخُّمٌ وَإِسْتَوْخَمَ الطَّعَامُ : کھانے کو	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	الْوَحْيُ - مہ - آواز۔ جلدی۔ بڑا سردار۔ بادشاہ۔
ناخوشگوار سمجھنا۔۔۔ إِسْتَوْخَمَ الْمَكَانَ : کسی جگہ	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	آگ ج و جی اور جلدی کرانے کے لیے بولا جاتا
کی آب و ہوا کو ناموافق بنانا۔	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	ہے ”الْوَحْيُ الْوَحْيُ“ ”وَالْوَحَاكُ
الْوُخْمُ وَالْوُخْمُ مِنَ الزَّجَالِ : ست ج	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	الْوَحَاكُ“ یعنی سبقت کرو سبقت کرو۔
أَوْخَامٌ شَيْءٌ وَوَجْمٌ : دیانہ۔	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	الْوَاجِئُ - فاج و احوال و وحَاة۔
الْوُخْمُ - مہ - ہوا ایر کے مانند ایک مرض۔ ہوا کا	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	الْوَجِيءُ - ست جلدی۔ کہا جاتا ہے ”مَوْتٌ
خراب ہونا جس سے امراض و بیماری پیدا ہوں۔	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	وَجِيءٌ“ جلدی کی موت۔ ”وَذِكَاةٌ وَجِيءَةٌ“
ضرر کے لیے استعارہ کیا جاتا ہے۔	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	جلدی کا ذبح۔
الزَّجِيمُ وَالْوُخُومُ مِنَ الزَّجَالِ : گندا۔	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	الْأَوْحَى - زیادہ تیز۔ کہا جاتا ہے ”الْفَقْلُ
ست ج وَوَخَامٌ وَوَجْمٌ : بَلَدٌ وَوَجِيمٌ :	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	بِالشَّيْفِ أَوْحَى“ تدار سے قتل جلدی واقع
ناموافق شہر۔ شئی وَوَجِيمٌ دیا زودہ۔ اَمْرٌ وَوَجِيمٌ	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	ہوتا ہے۔
الْعَاقِبَةُ : مضروری۔	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	وَوَخْدٌ يَوْخِدُ وَوَخْدًا وَوَجِيدًا وَوَخْدَانًا
أَرْضٌ وَوَحْمَةٌ وَوَجِيمَةٌ وَوَحَامٌ وَوُخُومٌ وَوُجِيمَةٌ	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	الْبَجِيءُ : اونٹ کا تیز زود رفتار ناکوں کا شتر مرغ کی
وَوَجِيمَةٌ وَوُجِيمَةٌ وَوُجِيمَةٌ وَوُجِيمَةٌ : مضر	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	طرح ڈالنا۔ صفت وَوَجِيدٌ وَوُجِيدٌ وَوُجِيدٌ
صحت گھاس والی زمین۔ دیا زودہ زمین۔	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	الْوَجْدُ - وَوَجْدٌ كَالِاسْمِ وَوُجُودٌ -
التَّخْمَةُ : بد ہضمی (اس کی اصل وَوَحْمَةٌ ہے)	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	وَوَجْرَةٌ يَوْجِرُهُ وَوَجْرًا : چھوٹا۔۔۔ هُ الشَّيْبُ :
ج تَخْمَاتٌ وَتَخْمٌ : کہا جاتا ہے ”هَذَا الطَّعَامُ	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	سَرَّكَ بِلَوْنٍ كَالْمَجْرِيِّ هُوَ
مَنْخَمَةٌ“ : یہ خوراک مضر صحت ہے (اس کی	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	فَلَانٌ : شہد کا ٹرید بنانا۔
اصل مَنْخَمَةٌ ہے)	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	
تَوَخُّشٌ - خیر یا شر کا ارادہ کرنا۔	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	
الْوُخْحَةُ - شمار۔	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	
وَوَحْيٌ يَوْحِي وَوَحْيًا الْأَمْرُ : تصد کرنا۔ وَوَحْبٌ	وَوَخْضٌ يَوْخِضُ وَوُخُوشًا : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر مرغ یا	

الثَّاقَّةُ : اونٹنی کا متوسط چال چلنا۔ کہا جاتا ہے
”وَلَحَى وَحَيْهَ“ اس نے اس کا ارادہ کیا ”وَمَا
أَذْرَى آيْنِ وَحَى“ میں نہیں جانتا اس نے کہاں
توجہ کی۔
وَحَى الْأَمْرِ : طلب کرنا۔ ہُ يَاْمَرُ :
متوجہ کرنا۔

وَأَخَى مُوَاحَاةً فَلَانَا : بھائی بھئی کرنا (اخاء
میں ایک ضعیف لغت ہے)
تَوَخَّى تَوَخَّيًّا وَتَأَخَّى تَأَخَّيًّا الْأَمْرُ : تصد
کرنا۔ طلب کرنا۔
اسْتَوَخَى الْقَوْمَ : خیر طلب کرنا۔
الْوَحَى : ہم۔ ارادہ۔ قابل اعتماد راستہ۔ ارادہ
کرنے والا۔ ح وَحِيًّا وَوَحِيًّا :
الوَحَى وَالْحَيْهَةَ : ارادہ۔

وَدَعَهُ يُوَدِّعُهُ وَوَدَاؤُهُ وَوَدَاؤُهُ وَوَدَاؤُهُ
وَدَاؤًا وَوَدَاةً وَوَدَاةً وَوَدَاةً وَوَدَاةً
خوابش کرنا۔ محبت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”وَدَدْتُ لَوْ
كَانَ كَذَا“ ولو أَنَا فَعَلْتُ كَذَا“ مجھے تمنا ہے
کہ ایسا ہوتا، مجھے تمنا ہے کہ تم ایسا کرتے۔ (لَوْ
اس مقام میں موصول حتمی ہے)
وَادَعَهُ وَوَادَاؤُهُ مُوَادَعَةٌ : محبت ظاہر کرنا۔
تَوَدَّدَهُ : دوستی چاہنا۔ تَوَدَّدَ إِلَيْهِ : دوستی کرنا۔
تَوَادَّ الرَّجُلَانِ : آپس میں ایک دوسرے سے
محبت کرنا۔

الْوُدُّ وَالْوُدُّ وَالْوُدُّ : محبت۔ دوستی۔ تم کہتے ہو
”فَوُدِّي أَنْ يَكُونَ كَذَا“ میں چاہتا ہوں کہ ایسا
ہو محبت کرنے والا یا بہت محبت کرنے والا۔ ح
أَوْدَادُ وَأَوْدَادُؤُهُ : کہا جاتا ہے ”هُوَ وَذَكَ وَهُمْ
أَوْدَادُكَ“ اور وَذَكَ شَبِيحٌ وَادٍ اسے اسم جمع سمجھنے
میں ہے۔ جیسے قَوْمٌ وَوُدٌّ
الْوُدُودُ : بہت محبت کرنے والا۔ محبوب۔ تم کہو
گے هُوَ وَوُدُودٌ وَوُدُودٌ
الْوُدَيْدُ : محبت کرنے والا۔ ح وَأَوْدَقُ وَأَوْدَقًا
وَدَيْدًا اسم جمع یعنی مہین بھی ہے۔
الْأَوْدُ : اسم تفضیل ح وَأَوْدُونَ
المِوَدُّ : بہت محبت کرنے والا۔
وَدَا يَدُ وَأَوْدَا الشَّيْءُ : برابر کرنا۔
بِالْقَوْمِ : بدسلوکی کرنا۔

وَدَّيٌّ يُوَدِّدُ وَوَدَّةٌ : منقطع ہونا۔ کہا جاتا ہے
”وَدَدْتُ الْأَخْبَازَ عَنِّي“ اس کی خبریں منقطع
ہو گئیں۔
وَدَا تَوَدَّدْنَا وَوَدَدْنَا عَلَيْهِ الْأَرْضُ : ہموار کرنا
_____ عَلَيْهِ وَوَبِهِ : ہلاک کرنا۔ وَدَاتُهُ الْأَرْضُ چمپا
لینا۔

تَوَدَّدَ عَلَيْهِ : ہلاک کرنا۔ تَوَدَّدَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ
اور گر پڑنا اور ہموار ہونا _____ عَلَيْهِ وَعَنَّا
الْأَخْبَازُ خبریں منقطع ہونا۔ تَوَدَّدَ الرَّجُلُ : مرنا
_____ فَلَانًا عَلَيَّ مَالِهِ : لینا اور جمع کرنا۔
الْوُدَاؤُ : ہم۔ ہلاکت۔ التَوَدُّدُ : ہم۔ وطن کرنا۔
المُؤَادَّةُ : ہلاکت۔ بیابان۔ میت کا گڑھا۔
الْوُدْبُ : بد حالی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ عَلَيَّ وَدْبٌ“
وہ بد حالی میں چلا ہے۔

وَدَّجَ يَدَّجُ وَوَدَّجًا وَوَدَّجَ الدَّابَّةَ : چوپایہ کی
گردن کی رگ کاٹنا۔ وَدَّجَ بَيْنَ الْقَوْمِ : معاملات
درست کرنا۔ شُرُوفًا وَوَدَّجًا : صحیح کرنا۔ نرمی برتنا۔
وَادَّجَهُ مُوَادَّجَةً : صحیح کرنا۔ نرمی برتنا۔
الْوُدَّجُ : ح وَأَوْدَاجُ وَالْوُدَّاجُ : گردن کی رگ
جو غصہ کے وقت پھول جاتی ہے اور بقول بعض
وَوَدَّجَ أَسْرَ رِجْلٍ كَقَتْنٍ هِيَ جَسْرٌ كَوَدَّجَ كَرْنِ وَاللَا
كَائِنًا هِيَ : الوُدَّجُ : وسیلہ۔ سبب۔ کہا جاتا ہے
”كَانَ فُلَانٌ وَوَدَّجِي إِلَى كَذَا“ یعنی فلاں شخص
میرے لئے فلاں چیز کیلئے وسیلہ ہے ح وَأَوْدَاجُ :
الْوُدَّجَانُ : دو بھائی۔ کہا جاتا ہے ”بَشَسَ وَوَدَّجَا
حَوْبَ هُصَا“ وہ دونوں لڑائی کے دو بڑے
بھائی ہیں۔

أَوْدَحَ لَهُ : طبع ہونا۔ اقرار کرنا _____ الْإِبِلِ
اونٹ کا موٹا ہونا۔ اچھی حالت والا ہونا _____
الْحَوَاضِ : حوض کو درست کرنا۔
الْوُدْحَةُ : تھوڑی چیز کہا جاتا ہے ”مَا أَعْنَى
عَيْنِي وَوَدْحَةٌ“ اس نے مجھ کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔
وَدَّرِيدٌ وَوَدَّرَا : بیوشی طاری ہونے کے قریب
تک مست ہونا _____ الشَّيْءُ : دور کرنا۔ طبعہ
کرنا۔
وَدَّرَةٌ : بھلا کر بلاکت میں ڈالنا۔ وَوَدَّرَ الْمُسْلِمُ
قاصد بھیجنا _____ الشَّيْءُ : دور کرنا۔ طبعہ کرنا
_____ الْمَالِ : فضول خرچی کرنا _____

الرَّجُلُ : گمراہ کرنا۔
تَوَدَّرَ : فضول خرچ ہونا _____ فِي الْأَمْرِ :
پڑنا _____ هُ : ہلاکت میں ڈالنا۔
وَدَّسَ يَدِّسُ وَوَدَّسًا عَلَيَّ الشَّيْءُ : پوشیدہ رہنا
_____ بِالشَّيْءِ : چھپانا _____ إِلَيْهِ بِكَلَامٍ :
ادھوری بات کہنا _____ الرَّجُلُ : جانا۔

وَدَّسَ الشَّيْءُ : پوشیدہ ہونا۔ وَوَدَّسْتَ
الْمَعَابِجَةَ هِرَاوِلَ حَرْنَا _____ إِلَيْهِ بِكَلِمَةٍ : کوئی
بات کہنا۔
وَدَّسَ وَوَدَّسَ وَوَدَّسَ الْمَكَانَ : ہریاول
والا ہونا۔
أَوْدَسْتَ الْأَرْضَ : اتنا اتنا کہ سطح زمین چھپ
جائے۔
الْوَدَّسُ وَالْوَدَّاسُ وَالْوَدَّاسُ : نباتات جو سطح
زمین کو چھپالے۔ الوُدَّسُ : عجیب۔
الْوَدَّيْسُ : خشک نباتات۔ پتلا شہد۔
أَرْضٌ مُوَدَّسَةٌ : کم گھاس والی زمین۔
وَدَّسَ يَدِّسُ وَوَدَّسًا إِلَيْهِ بِكَلَامٍ : ادھوری
بات کہنا۔

وَدَّعَ يَدَّعُ وَوَدَّعًا الشَّيْءُ : چھوڑنا _____
مَلَا عِنْدَهُ أَمَانَتٌ رَحْمًا _____ الشَّيْءُ : غھمنا
(اس فعل کے مصدر اور ماضی قلیل الاستعمال
ہیں) (_____ وَوَدَّعًا الْمَسَافِرُ النَّاسَ : مسافر
کالوگوں کو عیش و آرام میں چھوڑنا۔ اور کہا جاتا
ہے ”وَوَدَّعُوهُ“ جبکہ کسی کیلئے دعا کریں کہ اللہ
تعالیٰ اس کی تکالیف ستر کو دور کرے اور اس کو
آرام نصیب کرے _____ الْقَوْبُ بِالْقَوْبِ :
محفوظ کرنا) _____ وَوَدَّعَ يُوَدِّعُ وَوَدَّعَةً
الرَّجُلُ : مطمئن ہونا۔ صفت وَوَدَّعَ وَوَدَّعًا
وَوَدَّعَ الْمَسَافِرُ الْقَوْمَ : مسافر کالوگوں کو عیش و
آرام میں چھوڑنا _____ الْقَوْمَ الْمَسَافِرُ :
رضعت کرنے کیلئے جانا _____ فَلَانًا : چھوڑنا
_____ الصَّبِيُّ أَوْ الْكَلْبُ : گلے میں کوڑی ڈالنا
_____ الْقَوْبُ فِي صِوَانٍ وَنَحْوِهِ : کپڑے کو
گھڑی وغیرہ میں محفوظ کرنا _____ قَوْسَةٌ :
گھوڑے کو خوشحال رکھنا۔
وَوَدَّعَهُ مُوَادَّعَةً وَوَدَّعًا : صلح کرنا۔ اسم
الْوَدَّاعِ

الودئكة۔ ودبك كاسونث۔ چربی ملا ہوا آٹا۔
 بنات آودك۔ مہیبیں۔
 وَذَلَّ يَدُلُّ وَذَلَّ السَّقَاءُ: مٹھیرہ میں بلونا۔
 وَذَنْ يَدِينُ وَذَنَا الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا۔ ءُ هُ
 بِالْفَعْلِ: دُضْرُے سے مارنا۔ الشَّيْءُ:
 گھٹانا، حقیر کرنا۔ کوٹنا۔ صفت مفعولی مؤذون ()
 وَذَنَا وَذَانَا الشَّيْءُ: تر کرنا۔ بھگونا
 الْعَجَلُ: کھال کو نرم ہونے کے لیے مٹی
 کے نیچے گاڑنا۔
 وَذَنْتَ تُوذُنُ وَذَنَا وَذَنْتَ تَدِينُ وَذَنَا
 الْمَرْأَةُ: کمزور جسم کے نیچے چنا۔
 وَذَنْ الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا۔ تر کرنا۔ نرم کرنا۔
 گھٹانا۔
 أَوْذَنْ الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا۔ حقیر کرنا۔ أَوْذَنْتِ
 الْمَرْأَةُ: لاغر پختہ چنا۔
 تَوَذَّنَ الْعَجَلُ: کھال کا نرم ہونا۔
 إِتَدَّنَ الْعَجَلُ: کھال بھگونا۔ الْعَجَلُ:
 کھال کا ٹھیکنا۔
 الْأُذْنُ: نرم و نازک۔
 الْمُؤَذِّنُ وَالْمُؤَذَّنُ: لاغر پختہ۔ الْمُؤَذَّنُ
 چھوٹی گردن اور چھوٹے ہاتھوں والا۔ ناقص
 الخلق۔ نچلے کندھوں والا۔ مؤنث مؤذونة۔
 الْمُؤَذِّنُ: چھوٹا ناقص الخلق۔
 الْوُدَيْنُ: بھگویا ہوا۔
 وَذَيْدُهُ وَذَهَابُ الْفُلَانِ عَنِ الْأَمْرِ: جانا۔
 أَوْذَةُ إِيْدَاهَا بِالْأَيْلِ: اونٹ کو اٹھانا۔
 الْفُلَانُ عَنِ كَذَا: بازار کھنا۔
 اسْتَوْذَعُ الْعَصْبُ: مغلوب ہونا۔ مطیع ہونا۔
 اسْتَوْذَعْتُ الْإِبِلَ: اکٹھا ہونا۔
 اسْتَيْذَعُ الرَّجُلُ: ہلکا سمجھنا۔ الْأَمْرُ:
 درست ہونا۔
 الْوُدْهَاءُ مِنَ التَّسَاءِ: خوبصورت سفید
 عورت۔
 وَدَعَى يَدْعُو وَدَعَا وَدَعَا الْقَائِلُ الْقَائِلَ: خون
 بہانا۔ الْأَمْرُ: قریب کرنا () وَدَعَا
 الشَّيْءُ: بہانا۔ اور اسی سے وادی کا اشتقاق ہے
 اس لیے کہ اس میں پانی بہتا ہے۔ اووودعی ییدی
 سے امر کے سینے پر ہیں۔ د۔ دیا۔ دُوا۔ دئی۔ دینا۔

چربی سے جھانکنا۔
 اسْتَوْذَفَ الشَّخْمَ: چربی پکانا۔ اللَّبَنُ:
 دودھ برتن میں ڈالنا۔ فِي الْإِنَاءِ: برتن کا
 سراکھول کر جھانکنا۔ الْخَبْرُ: کھود کرید کرنا
 مَعْرُوفٌ فُلَانٍ: مانگنا۔ التَّبَاثُ:
 بناات کا ساہونا۔
 الْوُدْفَةُ وَالْوُدَيْفَةُ: مرغزار سبز۔
 الْوُدْفَةُ: چربی۔ ایک بناات کا نام جس کو نصی
 بھی کہتے ہیں۔
 وَذَقَّ يَذِقُ وَذَقَّ الْمَطْرُ: پینکانا۔ وَذَقَاوُ
 وَذُقُوا: قریب ہونا۔ یہ: بالوس ہونا
 نَظْنُهُ: وسیع ہونا یا بیٹ چلنا۔
 السَّمَاءُ بِرَسَانَا: السَّنِيفُ: کھوار کا تیز ہونا۔
 وَذَقَّ يَذِقُ وَوَدَقَ يُوذِقُ وَوَذَقَاوُ وَوَذَقَاوُ
 وَوَذَقَاوُ وَوَذُقُوا وَوَذَقَاوُ: کما جاتا ہے
 ”وَذَقْتُ ذَاتَ الْخَافِرِ“ یعنی سم دار مادہ جانور کا
 خواہش مند جفتی ہونا۔ صفت وادِقُ وَوَذُقُ وَ
 وَدِيقُ اور اسم الوداق۔
 وَوَدَقْتُ يُوذِقُ وَوَدَقْتُ عَيْنَهُ: آنکھ میں سرخ
 پھنسی ہونا۔
 أَوْذَقْتُ السَّمَاءَ: برسنا۔
 الْوُدُقُ: سم۔ بارش۔
 الْوُدْفَةُ وَالْوُدْفَةُ: سرخ پھنسی جو آنکھ میں نکلنی
 ہے۔ وَوَذُقُ وَوَذُقُ:
 الْوُدَيْفَةُ: سخت گرمی۔ سبزہ زار ج وَوَذَائِقُ۔
 الْمَوْذُقُ: ہرن وغیرہ کے کھڑے ہونے کی جگہ
 جہاں سے وہ درخت کے پتوں کو کھا سکیں۔ گھسان
 لڑائی کی جگہ۔ دو چیزوں کے درمیان آڑ۔
 وَوَذُقُ يُوذِقُ وَوَذُقَاوُ: چربی دار اور موٹا ہونا۔
 وَوَذُقُ الْفَرِيدُ: ٹرید میں چربی ڈالنا۔
 الْوَادِكُ وَالْوَدِكُ: موٹا۔
 الْوُدُكَا: گوشت اور چربی کی چھلکا ہٹ۔ وَوَذُلُّ
 ذُو وَوَذِكُ: موٹا۔ وَوَذِكُ الْمَيْتَةِ: وہ چیز جو مردہ سے
 ہے۔
 الْوُدَاكُ: چربی بیچنے والا۔
 الْوُدِكَةُ: چربی۔
 دَجَاجَةٌ وَوَذُوكٌ وَوُدَيْكَةٌ مَوْنِي
 مرغی۔

أَوْذَعَةُ الشَّيْءِ: کسی کے پاس امانت رکھنا۔ ءُ
 السَّيْرُ: راز ظاہر کرنا اور دوسرے سے چھپانے کو
 کرنا۔ أَوْذَعُ كِتَابَهُ كَذَا: خط میں لکھنا۔
 الْكَلَامَةُ مَعْنَى حَسَنًا: لطیف معنی کی تعصین
 کرنا اور کہا جاتا ہے أَوْذَعْتُهُ مَالًا یعنی میں نے
 اپنے پاس امانت رکھنے کے لیے اس سے مال لیا۔
 تَوَذَّعَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو رخصت کرنا
 التَّوْبُ: کپڑے کو محفوظ کرنا۔
 فُلَانًا: اپنی ضرورت میں مشغول کرنا۔
 تَوَذَّعَ الْقَوْمُ: باہم صلح کرنا۔ ایک دوسرے کو
 رخصت کرنا۔
 اِتَّذَّعَ: آرام کرنا۔ تن آسانی اختیار کرنا۔ قرار
 پکڑنا۔
 اسْتَوْذَعُ فُلَانًا مَالًا: کسی کو امانت رکھنے کے
 لیے مال دینا۔
 الْوُدْعُ: سم۔ قبر۔ تیر اندازی کا نشانہ۔ وَوَذُوعُ
 () وَالْوُدْعُ: کوڑی یا گھونگا۔ واحد وَوُدْعَةٌ
 وَوُدْعَةٌ ج وَوُدَعَاتُ۔
 الْأَوْدَعُ: جنگلی چرہا۔
 الْوُدَاعُ: رخصت۔
 الْوُدَاعَةُ وَوُدْعُ كَامُصِدْرٍ: سکون دو قار۔
 الدَّعَةُ وَوُدْعَةُ وَوُدْعَةُ وَوُدْعَةُ سَكُونٍ۔
 راحت۔ فراخی زندگانی۔
 الْوُدَيْعُ ج وَوُدَعَاءُ: چپ چاپ۔ ٹھہرنے والا
 ج وَوُدَائِعُ: عمد۔ مقبرہ۔
 الْوُدَيْفَةُ وَوُدَيْعُ كَامُصِدْرٍ: امانت۔ ج وَوُدَائِعُ۔
 الْمُسْتَوْذَعُ: حفاظت کی جگہ۔ رحم ہادر۔
 الْمَيْدَعُ: ج وَوُدَاعُ وَالْمَيْدَعَةُ
 وَالْمَيْدَاعَةُ: پرانا استعمال کپڑا۔ کپڑے وغیرہ
 محفوظ کرنے کی چیز۔ كَلَامٌ مَيْدَعٌ: غم انگیز گفتگو۔
 الْمَيْدَاعَةُ: آرام طلب مرد۔
 الْمَوْذَعُ: سم۔ مِنْ الْخَيْلِ: بڑسکون
 آرام پہنچایا ہو اٹھوڑا۔
 الْمَوْذُوعُ: سکون دو قار۔
 وَوَذُفٌ يَدْفُ وَوَذُفًا يَهْلُكُ كَرَبْنَا
 الْإِنَاءُ: برتن کا پکانا۔ لَدَا الْعَطَاءِ: کم روینا۔
 تَوَذَّعَ الْخَبْرُ: کھود کرید کرنا۔ تَوَذَّعْتُ
 الْأَوْعَالَ فَوْقَ النَّجْلِ: پہاڑی کبڈوں کا پہاڑ کی

الکلب: کتے کے گلے کا شیخ و ذائب۔
 تَوَذَّعْتُ تَوَذَّعْتُ: پھیرنا۔ تَوَذَّعْتُ الشَّيْءَ فَلَانَا: عمدہ معلوم ہونا پسند آنا۔
 وَذُوذُ الرُّجُلِ: حیر چلنا۔ ووزنا: کہا جاتا ہے
 "مَنْ الذَّنْبُ يُوذُّ ذُو"۔ پھیرا دوڑتا ہوا گزرا۔
 رَجُلٌ وَذُوهُ: حیر رتار مرد۔
 وَذَعَى بَيْدَى وَذَهَا وَجْهَهُ: چوہر خراش لگانا۔
 الوذاة: رنج و سختی کا سبب۔
 الوذبة: اہم مرتہ۔ درد۔ مرض۔ عیب۔ تھوڑا پانی۔
 الوزة: زمین کا کھرا۔ والوزن سر۔
 وَرَأَى أَوْ يَرَى أَوْ يَرَى الشَّيْءَ: دیکھ کرنا۔
 مِنَ الطَّلَامِ: شکم سیر ہونا اور کہا جاتا ہے "مَنَاوُ رَيْتُ وَمَنَاوُ رَيْتُ وَمَنَاوُ رَيْتُ" یہ" میں نے اس کو نہیں جانا۔
 تَوَذَّعْتُ عَلَيْهِ الأَرْضُ: گر کر ہموار ہونا۔
 الوزاء: پوتا۔ وَرَاءَ الْإِنْسَانِ: پیچھے۔ اور کبھی آگے کے معنی میں آتا ہے۔ مذکر مؤنث ہے اور اس کی تصغیر وَرَيْتَةٌ وَذُرِّيَّةٌ ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ وَرَيْتَةُ الْحَائِطِ أَوْ ذُرِّيَّةٌ" وہ دیوار کے پیچھے ہے۔ یہ کلمہ طرف مکان ہے۔ اور سوئی کے سنے میں بھی آتا ہے جیسے مِنْ ابْنِي وَرَاءَ ذَلِكَ جو شخص اس کے سوا طلب کرے۔
 وَرَبٌّ يُوذَّبُ وَرَبُّ الْعَرْقِ: خراب ہونا۔ صفت وَرَبٌّ۔
 وَرَبٌّ عَنِ الشَّيْءِ: معارضات سے توریہ کرنا۔
 وَرَبٌّ وَرَبُّهُ وَرَبُّهُ الرُّجُلِ: فریب دینا۔ مکاری کرنا۔
 الوزب: جنگلی جانوروں کا بھٹ۔ چوہے یا بچھو کے سوراخ کا دانہ۔ دو پھلیوں کا درمیانی حصہ۔ عصب۔ انگوٹھا اور اگھٹ شہادت کا درمیانی حصہ کھولنے کی حالت میں۔ چوڑی۔
 الوزب: ایزب ایک میں لخت ہے بمعنی عصب۔
 الوزبة: چوڑا۔ کوکھ کا کھرا۔
 الوزب: جھکاؤ۔ پیچیدگی۔
 وَرَبُّ يَرْتُ وَرَبُّهُ وَرَبُّهُ الرُّجُلِ: وارث ہونا۔ کہا جاتا ہے "وَرَبُّ الثَّوَالِ وَالْمَجْدُ عَنِ فُلَانٍ" فلاں کے مال و سحر

وَيَذَرُهُ بِمَعْنَى يَذَعُهُ وَيَسْرِكُهُ اور اس کے لیے ماضی مصدر اور اسم فاعل تَرَكَ وَالتَّرَكُ والتَّارِكُ بولا جائے گا (وَوَذَّرْتُ تَوَذَّرْتُ) الوذرة: گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹنا۔
 الوذرة مِنَ اللحم: چھوٹا ٹکڑا و ذوز و ذوز الوذرتان: دو ہونٹ۔
 الوذرة: بہت گوشت والا بازو۔ بدبودار عورت اور بقول بعض موٹے ہونٹ والی عورت۔
 الوذرة: درزی کے کپڑوں کا لکٹ چھانٹنا۔
 وَذَعَى وَذَعَى النَّمَاءُ: پانی بہنا۔
 الوذوع: نا۔ چشمہ۔ سنگلاخ پر بہنے والا پانی۔
 وَذَفٌ يَذِفُ وَذَفًا الشَّحْمُ وَغَيْرُهُ: چمکی بہنا۔ (وَذَفَاوُ وَذَفَانَاوُ وَذَفٌ وَتَوَذَّفُ) اگڑے ہوئے تازے چلنا۔
 تَوَذَّلَ الْقَوْمُ مِنَ الْجُزَارِ: گوشت کا کھرا لینا۔
 امْرَأَةٌ وَذَلَّةٌ وَوَذَلَّةٌ: چست و چالاک اور اچھے قدم والی عورت۔
 الوذالة: گوشت کا کھرا جس کو قصائی تقسیم سے پہلے جدا کرے۔
 الوذيلة: میل کیا ہوا چاندی کا کھرا۔ آئینہ رُج و ذَبِيلٌ وَوَذَائِلُ: الوذيلة: کوہان یا دم کے گوشت کا کھرا۔ مِنَ التَّمَاءِ: اچھے قدم والی عورت۔
 وَذَحَتْ تَوَذَّمُ وَذَمًا الدَّلْوُ: ڈول کا تسمہ ٹوٹنا۔ صفت وَذَمَةٌ: الوذم نفسه: خود تسمہ ٹوٹنا۔
 وَذَمَةٌ: کاٹنا۔ وَذَمَ الْكَلْبُ: کتے کے گلے میں پٹہ ڈالنا۔ عَلَى الْخَمْسِينَ: زیادہ ہونا۔
 اليخمين: واجب کرنا الدلو۔ ڈول کا تسمہ مٹانا أَوْ ذَمَ الدَّلْوُ: ڈول میں تسمہ باندھنا یا تسمہ مٹانا۔
 التذرة: نذر واجب کرنا۔ عَلَى الْخَمْسِينَ: زیادہ ہونا۔
 الوذم: مہ۔ زیادتی۔ مَسْحُجٌ وَذُوْمٌ وَأَوْذَامٌ وَأَوْذَمٌ وَجِجٌ وَأَوْذَمٌ: الوذم: ڈول کا تسمہ۔ واحد وَذَمَةٌ۔
 امْرَأَةٌ وَذَمَاءٌ: بانجھ عورت اور ایسا ہی قَوْسٌ وَذَمَاءٌ۔
 الوذمة: اوجھ و آنتیں۔ جِجٌ وَذَمٌ۔
 الوذيمة: مال جو نبی کسبل اللہ دیا جائے وَذِيمَةٌ

ذین۔
 أَوْذَى إِيذَاءً: ہلاک ہونا۔ بِهَ الْمَوْتُ: ہلاک کرنا۔ وَأَوْذَى بِالشَّيْءِ: لے جانا۔
 إِيذَى إِيذَاءً: دست لیا (اس کی اصل إِيذَى ہے)۔
 إِيذَى إِيذَاءً بِحَقِّهِ: حق کا قرار کرنا۔
 الدينة: مہ۔ خون بہا۔ جِجٌ دِيْنَاتٌ (اس کی اصل وَذَى ہے) تاء و او مخروفاً کے عوض میں ہے جیسے عِدَّةٌ وَرَيْتَةٌ مِثْلُ۔
 الوذى: ہلاکت۔
 الوادى: نا۔ پہاڑوں یا ٹیلوں کے درمیان کی کشادگی جو سیلاب کے لیے گزرگاہ ہو۔ جِجٌ أَوْذِيَةٌ وَأَوْذِيَةٌ وَأَوْذَاءٌ وَأَوْذَاءٌ: طرقتہ۔ مذہب۔ کہا جاتا ہے "هُمَا مِثْلُ وَادٍ وَاجِدٌ" وہ دونوں ایک سنے یا ایک لفظ سے ہیں "وَسَأَلُ بِهِمُ الْوَادِي" وادی ان کو ہالے لگی یعنی وہ ہلاک ہو گئے "وَأَنْتَ فِي وَادٍ وَنَحْنُ فِي وَادٍ" اختلاف مقاصد کے موقع پر بولا جاتا ہے۔
 الوذى: کھجور کے چھوٹے پودے واحد وَذِيَّةٌ۔
 التوذية: بہت قدم بردار۔ کٹڑی جو ادنیٰ کے تھنوں پر باندھی جاتی ہے۔ جِجٌ التوذى۔
 الموذى: نا۔ شیر۔
 وَذَأٌ يَذَأُ وَذَأٌ فَلَانٌ: ڈانٹنا۔ حیر سمجھنا۔ عیب لگانا۔ وَذَأْتُ الْعَيْنَ عَنِ الشَّيْءِ: چند صیا جانا۔
 إِيذَاءً: جھڑکی برداشت کرنا۔
 الوذة: مہ۔ نامناسب و کمرہ بات۔
 الوذاة: عیب۔ علت۔
 وَذَحٌ يَذَحُ وَذَحًا: حیر چلنا۔
 وَذَحَتْ تَوَذَّحٌ وَتَوَذَّحٌ وَذَحًا الشَّاةُ: اُون میں بیچنی لگی ہوئی والی ہونا۔ الرُّجُلِ: مرد کی رانوں کے اندرونی حصہ میں جلا ہوا ہونا۔
 الوذح: پھیر بکری کے اون میں لگی ہوئی بیچنی اور پشپاب واحد وَذَحَةٌ وَذَحٌ۔
 الأوذح: کینہ و تشیم۔
 وَذَرَةٌ يَذِرُهُ وَذَرًا: کاٹنا۔ وَذَرُ الْجَزْحِ: زخم کو چیرنا۔ الشَّيْءِ: چھوڑنا۔ اس آخری معنی میں مضارع اور امر کے علاوہ کوئی دوسرا صیغہ مستعمل نہیں۔ تم کو گے ذرة بمعنی ذعة و انوركة

کلارث ہوا۔
 وَرَثَ الرَّجُلُ مَالًا: میراث قرار دینا۔
 هُمِنْ فُلَانٍ: وارث بنانا۔ الرَّجُلُ فُلَانًا: اپنا وارث بنانا۔ النَّارُ: آگ کو بھڑکنے کیلئے حرکت دینا۔
 أَوْزَنَهُ أَيَوَّأَنًا: وارث بنانا۔ فُلَانًا مَالًا: میراث قرار دینا۔ هُ الشَّقَمُ: جلائے بیماری کرنا۔ هُ الشَّيْءُ: پیچھے لانا۔ أَوْزَنَهُ الْمُخْرَجُ هَمًّا: باعث سبب ہونا۔ أَوْزَنَ الْمَطْرُ الثِّبَاتُ نِعْمَةً: باعث و سبب ہونا۔ وَلَدَهُ: تمناوارث بنانا۔
 تَوَارَثَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کا وارث ہونا۔ تَوَارَثُوا الْمَالَ أَوْ الصَّخْدَ: زمانہ قدیم سے ایک دوسرے کا وارث ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَوَارَثُوا الصَّخْدَ كَمَا يَرِثُ عَنِ كِتَابٍ" انہوں نے اپنے باپ دادا سے بزرگی پالی "وَالصَّخْدُ مَتَوَارَثٌ بَيْنَهُمْ" بزرگی ان کے درمیان میراث میں ہے "وَهُمْ فِي إِرْثٍ مَجْدٍ" ان لوگوں کے لیے بزرگی کی میراث ہے "وَتَوَارَثْنِي الْحَوَادِثُ" میرے اوپر حوادث پے بہ پے واقع ہوئے۔
 الْوَرِثُ: تازہ چیز۔
 الْإِرْثُ وَالْوَرِثُ وَالْوَرَاثَةُ وَالشَّرَاثُ: مصادیق۔ میت کا ترکہ۔
 الْوَارِثُ: فاج و زورق و وُزَاتٌ۔
 الْجَوَارِثُ: میت کا ترکہ۔ ج متوارث۔
 الْمُوَزَّوْثُ: سفہ۔ ترکہ چھوڑنے والا۔ میراث۔
 وَرِخٌ يُوَزِّخُ وَرْحًا وَتَوَزَّخَ الْعَجِينُ: گندھے ہوئے آٹے کا ڈھیلا ہونا۔
 وَرَّخَ الْكِتَابَ: ایک نکتہ ہے اُزْحَمِيں۔
 أَوْزَخَ الْعَجِينُ: گندھے ہوئے آٹے کو نرم کرنا۔
 تَوَزَّخَتْ تَوَزَّخًا وَاسْتَوَزَّخَتْ اسْتِيزَاخًا الْأَرْضُ: تر ہونا۔
 النَّارِخُ: دیکھنے ماہوارخ۔
 مَكَانٌ وَرَّخٌ: گنجان گھاس والی جگہ۔
 الْوَرِيخَةُ: نرم زمین۔ ڈھیلا گندھا ہوا آٹاج و زانخ۔
 وَزَدَ يَزِدُ وَزَادًا الْمَاءُ: پانی پر آنا۔ صفت

وارد۔ الْمَاءُ وَغَيْرُهُ: متوجہ ہونا۔ قریب آنا۔ پینچنا۔ اسم۔ الْوَزْدُ: الرَّجُلُ حَاضِرٌ هُوَا: وَرَدَتِ الْحُمَى: باری سے آنا۔ الشَّجْرَةُ پھول والا ہونا اور "وَرَدَتْ الْبَلَدَ" (میں اس شہر میں پینچا) ووزد علی کتاب (میرے پاس خط آیا) مجاز ہیں۔
 وَوَدَّ الرَّجُلُ: بخارزادہ ہونا۔ وَوَدَّ عَلَيْهِ فُلَانٌ: لایا جانا۔
 وَوَدَّ يُوَدُّ وَوَدَّوْهُ وَوَدَّوْهُ الْفَرَسُ: گھوڑے کا سرخ زردی مائل ہونا۔
 وَوَدَّ الشَّجَرُ: درخت میں پھول لگانا۔ وَوَدَّتِ الْمَرْأَةُ: رخسارے سرخ کرنا۔ وَوَدَّ الْقَوْبُ: کپڑے کو گلابی رنگنا۔
 وَوَدَّ مَوَارِدَ الرَّجُلِ: کسی کے پاس آنا۔
 الشَّاعِرُ الشَّاعِرُ: دوسرے شاعر کے شعر کے مانند بغیر سے ہوئے شعر کہا۔
 أَوْوَدَّهَ أَيَوَّادًا: گھٹا پر لانا۔ پھر مطلقاً حاضر کرنے کے معنی میں مستعمل ہونے لگا۔ هُ الْمَاءُ: پانی پر لانا۔ أَوْوَدَّ الْكَلَامَ: تصریح کرنا۔ الشَّيْءُ: ذکر کرنا۔ الْحَبْوُ: بیان کرنا۔
 تَوَوَّدَ الْكَلَامَ: آنے کو کہنا۔ الْمَاءُ: پانی پر آنا۔ الْخَيْلُ الْبَلْدَةُ: آہستہ آہستہ داخل ہونا۔ الْخَدُّ: رخسارے کا سرخ ہونا۔ كَلَّلُوں ہونا۔
 تَوَوَّدَ الْقَوْمُ إِلَى الْمَكَانِ: یکے بعد دیگرے آنا۔ تَوَوَّدُوا الْمَاءَ: پانی پر اکٹھا پینچنا۔ تَوَوَّدَ الشَّاعِرَانِ: بغیر سے ہوئے لفظ اور معنی میں متفق ہونا۔
 اسْتَوَزَّوْدَ الْمَاءَ: پانی پر پینچنا۔ هُ: گھٹا پر لے جانا۔ الصَّلَالَةُ: جلائے گراہی ہونا۔ فُلَانًا الصَّلَالَةَ: جلائے گراہی کرنا۔
 الْوَزْدُ ج وَزْدُو وَوَادُوْهُ أَوْوَادٌ: زعفران۔ شیر۔ ہمار۔ دلیر۔ هُ مِنَ الْخَيْلِ: سرفی زردی مائل گھوڑا۔ ج وَوَزُوْدٌ: درخت کی کلی۔ گلاب۔ واحد وَوَزْدَةٌ: وَوَزْدُ دَفْوَاءَ: ایک قسم کا پھول۔
 الْوَزْدُ: بخار۔ پانی پر پینچنا۔ وَوَيْفَهُ: ج أَوْوَادُ يَأْسُ: پانی کا حشر۔ وہ پانی جس پر لوگ پینچیں۔ پانی

پر پینچنے والے لوگ یا اونٹ۔ لشکر۔ پرندوں کی ڈار۔
 بِنْتُ وَوَزْدَانَ: گھریلا۔ ج بِنَاتُ وَوَزْدَانَ: الْوَزْدَةُ: گھوڑے کا سرخ رنگ۔
 الْوَزْدِيُّ: گلابی رنگ والی چیز۔ مَوْنُثُ وَوَزْدِيَّةٌ: الْوَزُوْدُ: تیز رفتار اونٹ۔
 الْوَزِيْدُ: گردن کی رگ۔ اور اس کو خنبل الْوَزِيْدُ بھی کہتے ہیں "وتین" اسی کے حروف ابجد سے۔ اور یہ دوہرا کہتی ہیں۔ ج أَوْوَدَّهَ وَوَزْدُوْهُ وَوَزْدُ: کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مُنْتَفِعٌ الْوَزِيْدُ" یعنی غضبناک بد خلق مرد۔
 الْوَارِدُ: فاج و اِرْدُوْنُ وَوَزَادُوْ وَوَزُوْدُوْ وَوَرْدَةٌ: الْوَارِدُ: دلیر ہمار۔ راستہ۔ لمبے لکھے ہوئے بال وغیرہ۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ وَوَارِدٌ الْأَزْتَبِيَّةُ" یعنی لمبی ناک والا۔ اور ہر طویل کو "وَوَارِدٌ" کہتے ہیں۔
 الْوَارِدَةُ: وَوَارِدٌ کا مؤنث۔ راستہ۔ پانی پر جانے والی قوم۔
 الْمَوْرِدَةُ: گھٹا۔ پانی کی طرف کا راستہ۔ مَوَارِدُ۔
 الْمَوْرِدَةُ: پانی کی طرف کا راستہ۔ ہلاکت۔
 الْمَوْرُوْدُ: سفہ۔ کہا جاتا ہے "وَجَعَّ مَوْرُوْدُ الْقَدَالِ" وہ اس حال میں واپس ہوا کہ اس کی گدی طمانچوں سے سرخ تھی۔
 وَوَرَسٌ يُوْرَسُ وَوَرَسًا الصَّخْرُ: چٹان کا کلی سے سبز اور پھسل والا ہونا۔
 وَوَرَسٌ (خض) وَوَرَسًا الثَّبْتُ: نباتات کا سبز ہونا۔
 وَوَرَسَ الْقَوْبُ: کپڑے کو روس سے رنگنا۔
 أَوْوَرَسَ الشَّجَرُ: پتوں والا ہونا۔ السَّكَنُ: درس والی ہونا۔
 الْوَرَسُ: ایک قسم کی گھاس تل کے مانند ہے جس سے رنگائی کا کام لیتے ہیں۔
 الْوَارِسُ وَالْوَرَسُ: سرخ۔ وَوَارِشُ الْخُمْرَةِ: بہت سرخ۔
 الْوَرِيسِيُّ وَالْوَرِيسُ وَالْمَوْرِيسُ: درس سے رنگا ہوا۔
 وَوَرِشٌ يُوْرِشُ وَوَرِشًا: لالچ کرنا اور ذہنی کاموں

کے چیخے پڑنا _____ شَبَابُ مِنَ الْقَلْعَامِ: حرم سے کھانا _____ هُ بَقْلَانٍ: بھڑکانا _____ عَلِي الْقَوْمِ: بغیر بلانے ہوئے کھانے کے وقت پہنچ جانا۔ کہا جاتا ہے "لَا تَرُشْ عَلِيَّ" میری گفتگو کو قطع مت کرو۔

وَرَشٌ يُوْرَشُ وَرَشًا: جست و چالاک اور خوش ہونا۔ صفت وَرَشٌ۔ مَوْنَتْ وَرَشَةٌ: ج وَرَشَاتٌ۔ وَرَشٌ تَوْرِيْشَاتِيْنِ الْقَوْمِ: بھڑکانا۔ اکسانا۔ اور واؤ کو حمزہ سے بدل کر آرزش تارِيشا بھی کہا جاتا ہے۔

الْوَرَشُ: مہ۔ ایک قسم کا کھانا جو دودھ سے تیار کیا جاتا ہے۔
الْوَرَشُ: مہ۔ پیٹ کا درد۔
الْوَرَشَانُ: قمری۔ مَوْنَتْ وَرَشَانَةٌ: ج وَرَشَانٌ وَوَرَشِيْنٌ۔

وَورَشَتٌ تَرُشُ وَوَرَصًا وَوَرَصْتٌ وَوَرَصْتٌ الْمَدَّجَاةُ: یکبارگی اڑے دینا۔
الْوَرَصُ: پاخانہ۔ ج أَوْرَاصُ۔
وَوَرَصٌ: جِ رَاگہ تلاش کرنا۔

وَوَرَطَةٌ وَوَرَطَةٌ: ہلاکت میں ڈالنا۔ اُوْرَطَ الشَّيْءُ: چمپانا۔ وَوَرَطَ اِبْنُ لُحْيٍ اِبْنِ اَحْوَزِي: دوسرے اونٹوں میں اپنے اونٹوں کو رلا دینا۔

وَوَرَطَهُ وَوَرَطَا وَوَرَطَةً: فریب دینا۔
تَوْرَطَتِ الْمَاشِيَةُ: کچڑی جگہ میں پھنسنا۔ یا ایسی جگہ میں پھنسنا جہاں سے رہائی نہ ہو سکے۔
تَوْرَطَتِ الرَّجُلُ: کچڑ میں پھنسنا یا مشکل میں پھنسنا۔ ہلاک ہونا۔

اِسْتَوْرَطَ لِيْ اَمْرٌ: ایسی مشکل میں پھنسنا جس سے رہائی نہ ہو سکے۔ ہلاک ہونا۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَوْرَطَ لِيْ جِبَالَتِيْنِ" وہ میرے جال میں پھنس گیا۔

الْوَرَطَةُ: کچڑ۔ سخت کچڑ جس میں بکری پھنس جائے اور چھوٹ نہ سکے۔ پست زمین جس میں کوئی راستہ نہ ہو۔ کنواں۔ تنگ گڑھا۔ ہلاکت۔ ہر مشکل کام جس سے رہائی دشوار ہو۔ درج وَرَطَاتٌ وَوَرَطَةٌ۔
الْوَرَطُ: دھوکا فریب۔

وَوَرَعٌ يُوْرَعُ وَوَرَعًا وَوَرَعًا وَوَرَعًا وَوَرَعًا: پرہیزگار ہونا۔
گناہوں سے دور رہنا۔ شہادت اور معاصی سے بچنا۔ صفت وَوَرَعٌ۔

وَوَرَعٌ يُوْرَعُ وَوَرَعًا عَن كَذَا: رکتا۔ وَوَرَعٌ يُوْرَعُ وَوَرَعًا وَوَرَعًا وَوَرَعًا وَوَرَعًا وَوَرَعًا وَوَرَعًا: کمزور ہونا۔ بزدل ہونا۔ حقیر ہونا۔

وَوَرَعٌ يُوْرَعُ وَوَرَعًا وَوَرَعًا وَوَرَعًا: معمولی مال والا ہونا۔

وَوَرَعٌ الْقَوْمِ: گھوڑے کو لگام سے روکنا _____ اِبْرَئِيْلُ عَنِ الْمَاءِ: اونٹوں کو پانی پر سے واپس لانا) _____ وَوَرَعٌ اَفْلَانًا عَن كَذَا: روکنا _____ يَبْتَهِمَا رُوكٌ بِن جَانَا: کہا جاتا ہے "مَنْ وَوَرَعٌ اَنْ فَعَلَ كَذَا وَوَرَعًا" وہ ایسا اور ایسا کرنے سے نہیں رکا۔

وَوَرَعٌ مُوْرَعَةٌ: گفتگو کرنا۔ مشورہ کرنا۔
تَوْرَعٌ مِّنْ اَوْعُنْ كَذَا: پرہیز کرنا۔
الْوَرَعُ: مہ۔ پرہیزگاری۔ رَجُلٌ وَوَرَعٌ: بزدل۔ کمزور۔ گناہ۔ جِ اَوْرَاعُ) _____ وَوَرَعَةٌ وَوَرِيْعَةٌ) گناہ اور شہادت سے بچنا۔

الرَّيْعَةُ: حالت۔ تم کہتے ہو "فَلَا تَحْسَبَنَّ الرَّيْعَةَ اَوْسَيْتِي الرَّيْعَةُ" فلاں کی حالت اچھی یا بری ہے۔
الْوَرَعُ: پرہیزگاری۔
الْوَرِيْعُ: روکنے والا۔

وَوَرَفٌ يُوْرَفُ وَوَرَفًا وَوَرِفًا وَوَرَفًا وَوَرَفَةً: الظِّلُّ: سایہ کا دراز و کشادہ ہونا _____ النَّبَاتُ: نباتات کا سرسبز ہونا اور ابلہانا۔ صفت وَوَرَفٌ۔
وَوَرَفٌ الْاَرْضُ: زمین کو تقسیم کرنا _____ النَّبَاتُ الْقَاصِرُ: تازہ نباتات کو چوسنا) _____ وَوَرَفٌ الْقَلْبُ: سایہ کا دراز و کشادہ ہونا۔

الْوَرَفُ: مہ۔ جگر کے اطراف کا پتلا حصہ۔
وَوَرَفٌ الشَّجَرُ وَوَرَفَةٌ: درخت کی خوشنمائی۔
الرَّيْفَةُ: مہ۔ سرسبز پودہ۔
الرَّيْفَةُ خُلِقَ لَهَا:۔
وَوَرَفٌ يُوْرَفُ وَوَرَفًا الشَّجَرُ: پتے دار ہونا۔
الشَّجَرُ: درخت سے پتے لیتا۔
وَوَرَفٌ الشَّجَرُ: پتے دار ہونا _____ الشَّجَرُ:

درخت سے پتے لیتا۔
اُوْرَقُ الشَّجَرِ: پتے دار ہونا _____ الرُّجُلُ: بہت مال و دولت والا ہونا _____ القَالِبُ: محروم رہنا _____ الصَّائِدُ: شکار نہ کرنا _____ العَايِزِيُّ: بغیر مال غنیمت کے لوٹنا۔
مَالٌ غَنِيْمَةٌ حَاصِلٌ كَرَامًا۔
تَوْرَقِي الْمَطْبِي: بہن کا پتے کھانا۔
اِبْرَئِيْلُ وَ اُوْرَاقِي يُوْرَقِي اِبْرَئِيْقًا الْعَيْبُ: انگوٹھ رنگ مکڑنا۔ صفت مُوْرَقٌ۔
الْوَرَقُ وَالْوَرِقُ وَالْوَرِقُ وَالْوَرِقُ: چاندی کا سکہ۔ جِ اُوْرَاقٌ وَوَرَاقٌ۔
الْوَرَقُ: چاندی کا سکہ۔ جِ اُوْرَاقِي وَوَرَقِي الشَّجَرِ: درخت کا پتہ۔ وَوَرَقِي الْكِتَابِ: کتاب کا ورق۔
واحد الْوَرَقَةُ جِ وَوَرَقَاتٌ وَ اُوْرَاقِي۔
الْوَرَقُ: زمین پر پڑا ہوا خون وغیرہ کا گول ٹکڑا۔ ہر زندہ حیوان۔ مال و روپیہ جیسے یا موسیقی وَوَرَقِي الشَّيْبَابِ: جوانی کی تروتازگی۔ اور ورق جمال و خوبی اور حسن ہیئت کیلئے بطور استعارہ کے بولا جاتا ہے۔

الرَّيْفَةُ: چاندی کا سکہ۔ جِ وَوَرَقِي الْوَرَقِ: مٹی نامی گھاس کی ابلہائی کی روپیہ کی جگہ مہز ہوجانے۔
زمین جو گرمی کے زمانے میں بارش ہونے کی وجہ سے مہزوار ہوجائے۔
الْوَرَقَةُ فِي الْقَوْمِ: کمان کا میوب۔
الْوَرَقَةُ: خیال رنگ۔
الْوَرَاقُ: گھاس کی وجہ سے زمین کی بزرگونی۔
الْوَرَاقُ: پتے نکلنے کا زمانہ۔
الْوَرَاقَةُ: کانڈ سازی کا پیشہ۔
الْوَرَاقُ: روپے پیسے والا۔ کانڈ کا بیجے والا۔ کانڈ بنانے والا۔ کاتب۔
الْوَرَاقُ وَالْوَرِقُ وَالْوَرِيْقُ مِنَ الشَّجَرِ: پتوں والا درخت۔ بہت پتوں والا۔ خوبصورت پتوں والا۔ شجر وَوَرَاقَةٌ وَوَرَقَةٌ وَوَرِيْقَةٌ: بہتر اور خوبصورت بہت پتوں والا درخت۔
الْاُوْرَاقُ: خاستری رنگ والا۔ راکہ۔ عام اُوْرَقِي: بے بارش کا سال۔ زَمَانٌ اُوْرَقِي: قحط کا زمانہ۔ مَوْنَتْ وَوَرَقَاءُ: جِ وَوَرَقِي۔
الْوَرَقَاءُ: اُوْرَقِي کا مَوْنَتْ۔ مادہ بھیرنا۔ ایک

وَرَهَتْ قَرُوهُ وَرَظَاهَا الْمَرْأَةُ: عورت میں بہت چربی ہوتا۔

تَوْرَةٌ فَلَانٌ لِي عَمَلٌ هَذَا الشَّيْءِ: ماہر نہ ہوتا۔

الْوَرْدُ مِنَ السَّحَابِ: بہت بارش والا ہول۔
الْوَارِدُ: کشادہ۔ فراخ۔

وَرَزَّ وَرَ التَّلْطُّ: نظر تیز کرنا۔ _____ ہی انکلام: جلدی جلدی بولنا۔

الْوَرِزَانُ: ایک پردہ جس کی ٹانگیں چھوٹی اور چرچ لگی اور کالی ہوتی ہے اور اس کے سر کے بالائی حصہ پر سرخی اور گلے میں حلقہ ہوتا ہے جس کا رنگ زردی مائل ہو تا ہے اور سارا بدن سبز نیلیوں مائل اور اس کی دم میں دو لمبے پر ہوتے ہیں۔

الْوَرِزِيُّ: کمزور نگاہ والا۔

الْمُورِزُورُ: فاکانے والا۔

وَرَزَى وَيَرِي وَرَظَاهَا الرَّجُلُ: ہچکچہ پر مارنا۔
الْقَيْحُ حَوْفُهُ: خراب کرنا اور گلا رہنا۔ اِسْمُ
الْوَرِي وَرَثٌ وَرَظَاهَا وَرِيَّةُ الشَّارِ: آگ کا بھڑکنا۔
_____ الْإِبِلُ: اونٹ کا سونا اور زیادہ چربی اور گودے والا ہوتا۔

وَرَزَى وَيَرِي وَيَرِي وَرَظَاهَا وَرِيَّةُ الرَّنْدِ:
چمقان کا آگ نکالنا۔ صفت وار۔

وَرِي وَيَرِي وَرَظَاهَا: گودے کا ٹھوس ہونا۔

وَرِي الرَّجُلُ: ہچکچہ میں بیٹ والا ہونا۔
صفت مَوْرُذُو مَوْرِي:

وَرَزَى تَوْرِيَّةُ الشَّيْءِ: پوشیدہ کرنا۔ _____ عَنْ
كَذَا: اصل بات چمپا کا دوسری بات ظاہر کرنا۔

_____ الخَبْرُ وَعَنِ الْخَبِيرِ: پس پشت ڈالنا اور چمپانا۔ _____ عَنْ فَلَانٍ بَصْرَةً: نگاہ بنا لینا۔

وَرَزَى الشَّارِ: آگ نکالنا (_____ وَأَوْرِي)
الرَّيَّةُ: چمقان سے آگ نکالنا۔

وَرَايَ حَوَارِثَةَ الشَّيْءِ: چمپانا۔

تَوْرِي تَوْرِيًا وَتَوْرِيًا تَوْرِيًا مَعْنَهُ: چمپنا۔

إِسْتَوْرِي الرَّيَّةُ: آگ نکالنا۔ کما جاتا ہے
إِسْتَوْرِي الرَّيَّةُ مِثْلُ مِثْلِهِ: اس کی رائے دریافت کی۔

پر بیضا۔ "وَهُمْ عَلَيَّ وَرَكٌ وَاحِدٌ" وہ میرے خلاف اکٹھے ہو گئے۔

الْوَرَسِيُّ: خبری اصلیت۔ کما جاتا ہے "إِنْ عِنْدَهُ
لَوَرَسِي الْخَبِيرِ" اس کے نزدیک خبری اصلیت ہے۔

الْوَارِكُ وَالْوَرَاكُ بِنِ وَرَاكٍ وَالْمُورِكُ
وَالْمُورِكَةُ مِنَ الرَّجُلِ: کباہہ کا وہ حصہ جہاں
سوار تھک کر ٹانگ پھیلا دے۔

الْأَوْرُكُ: بڑے سرین والا۔ مَوْنُثٌ وَرَ كَمَا بِنِ
وَرَاكٍ۔

الْمُورِكُ: صف۔ کما جاتا ہے "إِنَّهُ لَمُورِكٌ لِي
هَذَا الْأَمْرِ" وہ اس معاملہ میں بے گناہ ہے۔

المُورِكُ وَالْمُورِكَةُ: کباہہ کا اگلا حصہ
المُورِكَةُ: تکیہ کے مانند ایک چیز جس کو سوار
اپنے سرین کے نیچے رکھتا ہے۔

الْوَرَلُ: گوہ کی مانند ایک جانور ہے جو اس سے
کچھ بڑا ہوتا ہے اور اس کی دم لمبی اور باریک ہوتی
ہے۔ بِنِ وَرَ لَانَ أَوْرَالَ أَوْرُلٍ۔ مَوْنُثٌ وَرَ لَةً۔

وَرَمٌ بَرَمٌ وَرَظَاهَا وَرَظَاهَا الْجِلْدُ: سوجنا۔ صفت
وَارِمٌ _____ أَنْفٌ فَلَانٌ: غھبٹناک ہونا۔
الغَبِثُ: بسا اور موٹا ہونا۔

وَرَمٌ الْجِلْدُ: سوجن پیدا کرنا۔ _____ أَنْفٌ
فَلَانٌ: غھبٹناک کرنا۔ _____ يَنْفَعُهُ: تکبیر کرنا۔

أَوْرَمٌ إِتْرَامًا: غھبٹناک کرنے والی باتیں سنانا۔
کما جاتا ہے "فَعَلَّ بِهَذَا أَوْرَمَةً" یعنی اس نے اس
کے ساتھ وہ فعل کیا جس نے اسے غھبٹن کر دیا اور
غھبٹناک بنا دیا۔

الْوَرَمُ: صف۔ سوجن۔ بِنِ أَوْرَامٍ۔
الْأَوْرَمُ: لوگ یا بہت سے لوگ۔ کما جاتا ہے "مَعَا
أَوْرِي أَيْ الْأَوْرَمُ هُوَ" میں نہیں جانتا وہ کون
ہے۔

الْمُورِمُ: ڈاڑھ نکلنے کی جگہ۔
الْمُورِمُ: صف۔ بڑے ڈیل ڈیل کا مرد۔

وَإِرْلَهُ حَوَارِثَةً: زور زور ہونا۔ متقابل ہونا۔
تَوْرُنٌ: بہت تیل لٹانا۔ لاواریا سے پالنا۔

الْوَرَلُكُ: چمکی کی ایک قسم۔
وَرِيَّةٌ بِيْرُزَةٌ وَرَظَاهَا: بیوقوف ہونا۔ صفت أَوْرَهَ۔
مَوْنُثٌ وَرَظَاهَا: وَرِيَّةُ الرَّيْنِخِ: ہوا کا تیز چلنا۔

درخت کا نام جس کے سچے گول پھولے اور
نازک ہوتے ہیں۔ کبوتر فاختہ یا وہ جس کا رنگ
سبزی مائل ہو۔ بِنِ وَرَاقٍ وَوَرَاقِي۔ کما جاتا ہے
الْقِيَارَةُ مَوْرَقَةٌ لِلْمَعَالِ: یعنی تجارت مال کے
بڑھانے کا لاجیر ہے۔

الْمُورِقُ: فاکانڈی۔ کافز کا بنانے والا۔

وَرَكٌ يَرِكُ وَرَكًا: سرین پر سارا لینا۔
الرَّجُلُ: سرین پر مارنا۔ _____ الشَّيْءِ: سرین
کے متقابل کرنا (_____ وَوَرَاكًا) الرَّجَاكِبُ:
اترنے یا آرام لینے کیلئے سرین کو موڑنا۔ _____
بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ _____ عَلَى الْأَمْرِ:
قادر ہونا۔

وَرَكٌ يَرِكُ وَوَرَاكًا: سرین کو زمین پر رکھ کر
لینا۔

وَرَحَتْ تَوْرَكٌ وَرَكًا: الوَرَكُ: سرین کا بڑا
ہونا۔

وَرَكٌ الْخَبِلُ أَوْ الرَّجُلُ: سرین کے متقابل
کرنا۔

_____ عَلَى الْأَمْرِ: قادر ہونا۔ _____ الشَّيْءِ:
واجب کرنا۔

_____ الرَّجَاكِبُ: دو زانو بیٹھے والے کی طرح
ٹانگوں کو موڑنا اور دونوں سرین کو زمین میں رکھنا
_____ اللَّذْبُ عَلَيْهِ: گناہ کا الزام لگانا۔

الْيَجِينُ: جسم نکالنے والے کی نیت کے علاوہ
نیت کرنا۔

وَإِرْلَهُ حَوَارِثَةً الْجَبَلِ: پہاڑ سے گزرنا۔
تَوْرَكٌ سرین پر سارا لینا۔ _____ الشَّيْءِ:
سرین پر بٹھانا۔ _____ الرَّجَاكِبُ: اترنے یا آرام
لینے کیلئے ٹانگ کو موڑنا۔ _____ عَنْ الْأَمْرِ: دیر
کرنا۔ _____ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ _____
عَلَى الْأَمْرِ: قادر ہونا۔ لِلرَّجُلِ: کسی کی ٹانگ کو
ہاندہ دینا۔ کما جاتا ہے تَوْرَكٌ لَهْ فَهَضَرَ عَدَا سَ لَهْ
اس کی ٹانگ کو ہاندہ دیا اور پھاڑ دیا۔

تَوْرَكٌ: سرین پر ٹیک لگانا۔

الْوَرِكُ وَالْوَرَاكُ وَالْوَرَكُ: چوڑے۔ سرین
(مَوْنُثٌ) بِنِ أَوْرَاكٍ۔ الوَرِكُ: کمان کا کنارہ یا
تانت ہاندہ کی جگہ۔ کما جاتا ہے "فَعَدَّ الصَّلَاخَ
عَلَى وَرِكِ الشَّيْبَانِيَّةِ" صلح کشی کے پھیلے حصہ

الْوَزِيُّ - مہ - جو فہ بدن کی پیپ - پھپھڑوں کا زخم۔

الْوَزِيُّ - اسم ہے وزی کا - مخلوق - ابو الوزی زمانے کی کنیت۔

الْوَزَاءُ - وَزَاكُلَاهُ دیکھئے۔

الْوَزْدُ الْوَارِي وَالْوَزِيُّ - آگ دینے والا بہت مٹاق - الواری والواری - موٹی چربی - والواری مسلمان - پردی - لَحْمٌ وَرِيٌّ - موٹا گوشت۔

رِيَّةُ الْقَارِبِ وَوَزَيْتُهَا - آگ سلگانے کیلئے چیتورا وغیرہ۔

الْوَزُّ - اَوْزٌ مِّنْ اِيكٍ لَفَتْ - بط - مؤنث وَزَّةٌ - ج وَزَاتٌ۔

اَزْهَضُ مَوْزَةٌ - بہت بڑا والی زمین۔

وَزَأٌ يُّوَزُّ اَوْزًا وَاللَّحْمُ : گوشت خشک کرنا
القَوْمُ : بعض کا بعض کو ہانا۔ وَزَاهُمْ : بعض کو بعض سے ہانا۔

وَزَأٌ تَوَزَّوْهُ وَتَوَزَّوْنَا الْقَبِيْزَةُ : خشک بھرنا
القَوْمُ يُّوَزُّ اَوْجِبُ : گھوڑے کا سوار کو

گراتا۔ وَزَأْنَا فُلَانًا : سخت قسم کھانا۔
وَزَأْنَا فُلَانًا : سخت قسم کھانا۔

تَوَزَّأَ الْوِعَاءُ : برتن کا بھر جانا۔ التَّجْلُّلُ
خوشنالی میں بھر پور ہونا۔

وَزَبُّ يُّوَزِبُ وَوَزْبَانُ الْمَاعُوْخُوْهُ : پانی وغیرہ کا بہنا۔

اَوْزَبُ الْبِرِّ اَبَاهِي الْاَرْضِ : جانا۔

الْوَزَابُ - شاطریہ۔
الْمَجْرَابُ وَالْمَجْرَابُ - پر نالہ ج مینا زب و

مَا زَبْتُ اَوْ رِبْعُلُ بَعْضُ مَوَازِيْبٍ -
وَزَدَّ يُّوَزِدُّ وَوَزَدَا وَوَزَدَا الشَّيْءُ : اٹھانا۔

التَّجْلُّلُ : جو کچھ چیزوں کو بیٹھ پر اٹھانا (وَزَدَا)
التَّجْلُّلُ : غالب ہونا۔ القَلْمَةُ : رخسہ بند کرنا۔

وَزَدَّ يُّوَزِدُّ وَوَزَدَّ يُّوَزِدُّ وَوَزَدَّ وَوَزَدَا وَوَزَدَا
وَزَدَةً - گنہگار ہونا۔ وَزَرٌ فُلَانٌ : گناہ سے

منسوب کیا جاتا۔
وَزَرِيْرٌ وَوَزَارٌ قَلْبُ الْمَلِكِ : وزیر ہونا۔

اَوْزَرٌ الْبِرِّ اَزَا الشَّيْءُ : محفوظ کرنا۔ چھپانا۔ لے

جانا۔ التَّجْلُّلُ : جاسے ہانا۔
اَوَزَرَةٌ مَوَازِيْرَةٌ - وزیر ہونا۔ ؕ عَلَيَّ الْاَمْرُ

مدد دینا۔ تقویت دینا (یہ آرزو کا مقلوب ہے)
تَوَزَّرْتُ - وزیر ہونا۔

اَبْتَوَزَّرْتُ - چھوٹا سا کبیلہ اور حنا۔ بَقُوْبُهُ جھوٹے
سے کبیلہ کی مانند ہونا۔ گناہ کرنا۔

اِسْتَوَزَّرَهُ - وزیر ہانا۔ اِسْتَوَزَّرَ الشَّيْءُ : لے
جانا۔

الْوَزْرُ - مہ - گناہ - گرانی - بیماری بوجھ - کپڑوں
کی ٹھہری - ج اَوْزَارٌ - اَوْزَارُ الْحَزْبِ : سلمان

جنگ۔ کہا جاتا ہے "وَضَعَتْ الْحَزْبُ
اَوْزَارَهَا" یعنی جنگ ختم ہو گئی اسلئے کہ اس وقت

بھیما رکھ دیتے ہیں۔
الْوَزْرُ - جاسے ہانا۔ بلند ہانا۔

الْوَزْرَةُ - چھوٹا کبیلہ ج وَزَرَاتٌ وَزَرَاتٌ وَ
وَزَرَاتٌ۔

الْوَزَارَةُ وَالْوَزَارَةُ - وزیر کا مرتبہ۔
الْوَزِيْرُ - امور سلطنت میں بادشاہ کا مہمین و

مددگار۔ مددگار۔ ج وَزَرَاءٌ وَوَزَارٌ -
المَوْزُوْرُ - سفیر۔ گنہگار۔ گناہ سے شہم۔

وَزَعٌ يُّزَعُ وَ يُّزِعُ وَوَزَعًا فُلَانًا وَ يُّفْلَانُ :
روکنا۔ منع کرنا۔ وَزَعُ الْجَنِيْشِ : ترتیب سے

صنوں میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے "زَابَعَةُ يُّزِعُ
الْجَنِيْشِ" میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لشکر کی

ترتیب سے صف بندی کر رہا تھا (وَوَزَعًا)
فُلَانًا يُّفْلَانُ : بھڑکانا۔

وَزَعُ الْمَالِ يُّنْتَهِمُ : پرانہ کرنا۔ المال
عَلَيْهِمْ : تقسیم کرنا۔

اَوْزَعُ يُّنْتَهِمُ : تفریق کرنا۔ اصلاح کرنا۔ بھڑکانا
اَوْزَعُ يُّنْتَهِمُ : تفریق کرنا۔ اصلاح کرنا۔ ؕ

الشَّيْءُ : الامام کرنا۔ وَاَوْزَعُ الشَّيْءُ : الامام کیا جانا۔
وَاَوْزَعِيْهِ : بھڑکایا جانا۔ صفت مَوْزَعٌ -

تَوَزَّعٌ : پرانہ ہونا۔ القَوْمُ الْمَالُ :
آپس میں تقسیم کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَوَزَّعَتْ

الْاَهْلُكَارُ" اس نے کبھی ایک کی فکر کی کبھی
دوسرے کی۔ وَتَوَزَّعُوا ضَمِيْرُ فُهُمْ انہوں نے

ممالوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔
اِتَّعٌ - ہار ہونا۔ لگانا۔

اِسْتَوَزَعُ - اللہ شکرہ : شکر کی توفیق چاہنا۔
الْوَاوِيْعُ - نا۔ ڈانٹنے والا۔ کتا۔ فوج کا سردار ج

وَزَعَةٌ وَوَزَاعٌ -

الْوَزَعَةُ - وَاوِيْعُ كِ الْجَمْعُ - بادشاہ کے مددگار و
محافظ۔ اللہ تعالیٰ کے محارم سے باز رکھنے والے

حکام۔

الْاَوْزَاعُ - جماعتیں (اس کا واحد نہیں)

المُتَّعُ - نا۔ سخت جان۔

وَزَعٌ يُّزَعُ وَوَزَعًا وَوَزَعًا يُّزَعُ : تھوڑا تھوڑا
کر کے پیشاب کرنا۔ اور اسی سے ہے اَوْزَعَتِ

الطَّلَعَةُ بِالذَّمِّ - نیزہ کے زخم سے تھوڑا تھوڑا
خون نکلا۔

وَزَعُ الْجَنِيْشِ : صورت بن کر حرکت کرنا۔

الْوَزْعُ - کچی۔ بڑول مرو۔

الْوَزْعَةُ - پھیلنے۔ ج وَزَعٌ وَوَزَاعٌ وَوَزَاعٌ وَ
وَزَعَانٌ وَوَزَعَانٌ - الْاَوْزَاعُ : کمزور لوگ۔

وَزَفٌ يُّزِفُ وَوَزَفًا وَوَزَفًا وَوَزَفًا تَوَزَّوْا
اَوْزَفًا اَبْرَأًا جلدی کرنا (وَوَزَفًا) فُلَانًا :
جلدی کرنا۔

وَاَوْزَفٌ مَوَازِفَةٌ وَتَوَاوَزَفٌ تَوَاوَزَا
بَعْضُ كَالْبَعْضِ سَ قَرِيْبٌ هُوَ -

وَزَمٌ يُّوَزِمُ وَوَزَمًا فُلَانًا يُّبِيْهُ : مہ سے آہستہ
سے کاٹنا۔ الشَّيْءُ : سوراخ کرنا۔ الدُّنْيَا

قَرْضٌ اِذَا كَرَأَ (وَوَزَمٌ) نَفْسُهُ : دن میں ایک
مرتبہ کھانا۔

يُّوَزِمُ وَوَزِمَةٌ فِي مَالِهِ : کچھ جانا ہونا۔

تَوَزَّمٌ - بہت روکنے والا ہونا۔

الْوَزْمُ - مہ - مقدار۔ اپنے وقت پر آنے والا۔
محلہ (وَوَالْوَزْمُ وَالْوَزْمَةُ) سبزی کا کھانا۔

گوشت جس کو عقاب اپنے گھونسلے میں جمع کرتا
ہے۔ الْوَزْمُ : گوشت کا ٹکڑا خشک کیا ہوا۔ بڑا

چھوٹا۔ زَجْلٌ وَوَزْمٌ : گھٹے ہوئے گوشت کا مرو۔
الْوَزْمَةُ - مہ - مقدار۔ دن میں ایک مرتبہ کی

خوراک۔

الْوَزَامُ - جلدی۔

الْوَزَامُ - بہت گوشت اور عضلہ والا۔

وَزَنٌ يُّوَزِنُ وَوَزَانٌ وَوَزَانَةٌ الشَّيْءُ : تولنا۔ لُءُ
الدَّارِ اِهْمٌ وَغَيْرُهَا - تول کر دینا۔ الشَّيْءُ :
شعری تشبیہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا يُّوَزِنُ وَظُلْمًا"

یعنی یہ ایک رطل کے برابر ہے۔

وَزْنٌ يُّؤَدُّ وَرَاقَةُ الشَّيْءِ : بوجھل ہونا۔
صفت وَاِزْنٌ — الرَّجُلُ : عقلمند و سنجیدہ رائے
ہونا۔

وَزْنًا وَوَزَنَ نَفْسَهُ عَلَى كَذَا : دل لگانا۔
وَاِزْنَةً وَرَاقًا وَهُوَ اِزْنَةٌ — مقابل ہونا۔ وزن
میں برابر کرنا۔ عمل کا بدلہ دینا — بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ
وزن معلوم کرنے کیلئے مقابلہ کرنا۔
تَوَازَنَ الشَّيْئَانِ : باہم برابر ہونا۔
اِتْرَنَ : تلنا — الذَّرَاهِمُ : پرکھنا —
العُدْلُ : گھڑی کا دوسرے کے برابر ہونا —
الشَّيْءُ : وزن سے لینا۔

الْوَزْنُ — مع۔ مقابل۔ جِ اَوْزَانٍ — کہا جاتا ہے
”هَذَا دِوَاهِمٌ وَزْنٌ“ وزن کیا ہوا ہے۔ ”وَهَذَا
رَجُلٌ رَاجِحٌ الْوَزْنِ“ یہ شخص بختہ رائے اور
کامل العقل ہے۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ وَزْنُ الشَّيْءِ
او وَزْنُ الشَّيْءِ او زِنَةُ الشَّيْءِ او يُوْزَانِيهِ او
يُوْزَانِيهِ“ : وہ اس کے سامنے ہے یا وزن میں
اس کے برابر ہے ”وَهُوَ وَزْنُ الْجَبَلِ“ وہ پہاڑ کی
جانب میں ہے۔

الْوَزْنَةُ — وزن کا اسم مرہ۔ بختہ رائے۔ کامل
العقل عورت۔ کہا جاتا ہے ”مَا أَكَلْتُ فِي الْيَوْمِ
إِلَّا وَزْنَةً وَاحِدَةً“ دن میں اس کی خوراک
صرف ایک ہی مرتبہ ہے۔

الْوَزْنَةُ — وَزْنٌ کا اسم نوع۔
الْوَاِزِنُ — قال۔ کہا جاتا ہے ”دِوَاهِمٌ وَازِنٌ“
ذرا ہم کامل۔

الْأَوْزَانُ — اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا
الْقَوْلُ أَوْزَانٌ مِنْ غَيْرِهِ“ یہ قول دوسرے سے
زیادہ قوی ہے ”وَهُوَ أَوْزَانُ الْقَوْمِ“ وہ قوم میں
زیادہ وجاہت والا ہے۔

الْوَزِينُ — اندرائں کے پے ہوئے دانے۔ کہا
جاتا ہے ”هَلَالٌ وَزِينُ الرَّبِّيِّ“ فلاں سنجیدہ
رائے ہے۔

الْمَوْزُونَةُ — پست قدم عورت۔
الْمِيزَانُ — ترازو۔ جِ هَوَازِينٍ — المِيزَانُ —
مقدار۔ انصاف۔ کہا جاتا ہے ”اِسْتَقَامَ مِيزَانُ
النَّهَارِ“ دن آدھا ہو گیا۔

وَزُوْرٌ وَوَزُوْرَةٌ — جسم کو حرکت دیتے ہوئے

قریب قریب قدم رکھ کر چلنا۔ ہکا ہونا اور جلدی
کودنا۔

الْوُزُوْرُ — جسم کو حرکت دیتے ہوئے قریب
قریب قدم رکھ کر چلنے والا — وَالْوُزُوْرَةُ او جِمْحَا
پست قدم مرد۔ ایک پرندہ۔

الْمُوْزُوْرُ — قال۔ گانے والا۔
وَزَى يَزِي وَوَزِيًا الشَّيْءُ : جمع ہونا۔ سگڑنا۔
الْأَمْزُفَلَانَا : غصہ دلانا۔

وَاِزَافَةٌ اَوْ اِزَافَةٌ — مقابل ہونا۔
أَوْزَى اِيزَافَةً — ظُهِرَةٌ اِلَى الْحَائِطِ : ٹیک لگانا
— لِذَاهِبِهِ : دیواروں کو مٹی سے لینا — الشَّيْءُ :
اٹھانا اور ٹیک لگانا — اِلَى فُلَانٍ : پناہ لینا۔

أَوْزَيْتُهُ اِلَيْهِ : پناہ لینے پر مجبور کرنا۔
تَوَازَى تَوَازِيًا الشَّيْئَانِ : ایک دوسرے کے
مقابل ہونا۔

اِسْتَوَزَى اِسْتِيزَافَةً اِلَى الْجَبَلِ : پہاڑ پر چڑھنا۔
الْوَزَى — پست قدم شخص بدن کا مرد۔
اِسْتَوَزَى — قال۔ خود رائے۔ سیدھا کھڑا
ہونے والا بند۔

وَسَبَّ يَسِبُ وَسَبًّا وَاَوْسَبَ اِيسَابًا
الْمَكَانَ : بہت گھاس والی ہونا۔ اَوْسَبَ
الْمَكْبَشُ : بہت اون والا ہونا۔

وَسَبَّ يُوْسَبُ وَسَبًّا الْقَوْمَ : کچرا میلا ہونا۔
الْوَسْبُ — گھاس۔
الْوَسْبُ — مع۔ میل۔

الْمِيسَابُ — ادھ پکڑی کجور۔
وَسَجَتْ تَسِجُ وَتَسْجَاوُ وَبَسِجَاوُ وَتَسْجَاوَا
الْاِبِلَ : تیز چلنا۔ صفت وَاِسْجَةٌ۔
اَوْسَجَ التَّبَعِيْتُ : تیز چلانا۔

الْوَسْجُ وَالْوَسْجُجُ مِنَ الْاِبِلِ : تیز رفتار
وَسْجٌ — اور کہا جاتا ہے ”اِبِلٌ وَسْجٌ“ تیز رفتار
اونٹ۔

الْوَسْجُ وَالْوَسْجَانُ وَالْوَسْجِيحُ — اونٹ کی تیز
چال۔
وَسَجَّ يُوْسَجُ وَيَسْجُ وَيَسْجُ وَتَسْجَاوُ الشَّيْءُ
میلا ہونا۔ صفت وَاِسْجَةٌ۔

وَسَجَّ وَوَسَجَّ الشَّيْءُ : میلا کرنا۔
تَوَسَّجَ وَتَسَّجَ اِسْتَوْسَجَ — میلا ہونا۔

الْوَسْجُ — میل کھیل۔ جِ اَوْسَاحُ —

وَسَدَهُ الْوَسَادَةُ : کسی کو تکیہ دینا۔ وَسَدَ اِلَيْهِ
الْأَمْرُ : کسی کام کو کسی کے ذمہ کر دینا۔

اَوْسَدَ فِي الشَّيْءِ : تیز چلنا — الْكَلْبُ
بِالصَّنِيدِ : کتے کو شکار پر آسانا۔

تَوَسَّدَ الْوَسَادَةَ : سر کے نیچے تکیہ رکھنا —
ذِرَاعَةٌ : ہاتھ کو تکیہ کی طرح رکھ کر سونا۔

الْوَسَادُ وَالْوَسَادُ وَالْوَسَادُ — تکیہ ج
وَسَدَدٌ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ عَرِيضُ الْوَسَادِ“
یعنی غبی۔ اور ”اِنَّ وَسَادَكَ لَعَرِيضٌ“ کنایہ ہے
کثرت نوم سے۔

الْوَسَادَةُ وَالْوَسَادَةُ وَالْوَسَادَةُ — تکیہ ج
وَسَادَاتٌ وَوَسَادَاتٌ وَوَسَادَاتٌ وَوَسَادَاتٌ
وَسَطٌ يَسِطُ وَسَطًا وَسَطًا وَسَطًا الْمَكَانَ او
الْقَوْمَ : بیچ میں بیٹھنا۔ صفت وَاِسِطٌ (—)

وَسَادَةً الْقَوْمِ وَفِيهِمْ : قوم میں حق و عدل میں
متوسط ہونا۔
وَسَطٌ يُوَسِّطُ وَسَاطَةً — شریف ہونا۔
صاحب حسب ہونا۔

وَسَطٌ يَسِطُ وَسَاطَةً وَسَاطَةً وَسَطًا فِي
حَسَبِهِ : شریف و صاحب حسب ہونا۔
وَسَطَةٌ — ثالث بنانا۔ بیچ میں کرنا۔ وَسَطٌ
الشَّيْءِ : دو کلمے کرنا۔

اَوْسَطَ اِيسَاطًا الْقَوْمَ : بیچ میں داخل ہونا۔
تَوَسَّطَ الْقَوْمَ او الْمَكَانَ : بیچ میں بیٹھنا —
بَيْنَهُمْ : ثالث و مصلح بننا — الرَّجُلُ : درمیانی
چیلینا۔

الْوَسْطُ (واحد جمع مذکر مؤنث کے لیے)
معتدل۔ مثلاً کہا جاتا ہے ”شَيْءٌ وَسَطٌ“ یعنی عمدہ
اور ردی چیزوں کی درمیانی چیز جِ اَوْسَاطٌ وَسَطٌ
الشَّيْءِ : دونوں اطراف کے درمیان بیچے وَسَطٌ
الْحَبْلِ وَوَسَطُ الدَّارِ — رَجُلٌ وَسَطٌ : صاحب
حسب مرد۔ اور کہا جاتا ہے ”هُوَ فِي وَسَطِ
الْقَوْمِ وَفِي وَسَطِهِمْ“ یعنی وہ قوم کے درمیان
میں ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر وہ موقع
جہاں یہ لفظ وسط کے عوض میں رکھ سکتے ہوں وہ
ساکن الاوسط ہوتا ہے ورنہ متحرک الاوسط اور
اسی لحاظ سے کہتے ہیں ”وَسَطُ الْقَوْمِ“ اور

"وَسَطَ الْحَبْلُ"

الْوَسِيطُ - فَا - دَرَوَازَه - اِلَانِ كَا اَلْكَاحِصَةُ -

الْوَسِيطَةُ - وَاَسَاطُ كَا مَوْنِثُ - پَالَانِ كَا اَلْكَاحِصَةُ - ہارے کچھ کا عمدہ جوہر - ذریعہ - سبب - کہا جاتا ہے "كَانَ بِوَسِيطَةِ كَذَا" وہ فلاں کے ذریعہ سے تھا - ثالث - اور کہا جاتا ہے "فَلَانَ فِي وَاَسِيطَةِ قَوْمِهِ" فلاں اپنی قوم میں سب سے اچھا ہے -

الْوَسَاطَةُ - مَم - ثَالِثِي -

الْوَسِيطُ - دَوَجْجًا كَرْنَةُ وَالْوَالِیْنَ كَرْنَةُ دَرْمِیَانِ ثَالِثِیْنَ وَوَسَاطَةَ مَوْنِثِ وَبِیْطَلَةَ اَوْر كَمَا جَاتَا ہے "هُوَ وَسِيطٌ فِیْهِمْ" وہ بلند مرتبہ اور شریف النسب ہے -

الْاَوْسَطُ - مَوْتَصَطُ - مَعْتَدِلُ جِ اَوْ اَوْسَاطُ اَوْسَطُ الشَّیْءِ : دَوْنُوْنَ اَطْرَافِ كَا دَرْمِیَانِ - الْعِلْمُ الْاَوْسَطُ : عِلْمُ رِیَاضِی - اَوْر اِس كُو حَكْمَتِ وَصَلٰی اُجٰی كَیْتِی ہیں -

الْوَسْطَى - اَوْسَطُ كَا مَوْنِثُ جِ وَوَسَطٌ مِّنَ الْاَضْبَاعِ : بَیْجِ كِی اَنْكَلِ -

الْوَسْطُ - دَرْمِیَالِی - بَالُوْنَ كَا خِیْمَہ یَا جھوٹا خیمہ -

وَسْطُ الشَّمْسِ : اَقْتَابُ كَا آسْمَانِ كَی بَیْجِ مِیْنِ آتَا -

مُوسَطُ النَّبِیْتِ : گھر کا درمیانی حصہ -

المُتَوَسِّطُ - فَا - اَلْبَحْرُ الْمُتَوَسِّطُ : وہ سمندر جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان ہے اور جس کو بحر ابيض اور بحر روم بھی کہتے ہیں -

وَسِعَ یَسَعُ وَیَسَعُ سَعَةً وَبِیْطَعُ سَعَةً وَبِیْطَعُ سَعَةً : كَشَاوَهُ ہونا - كَمَا جَاتَا ہے "عِشْرَتَيْنِ كَيْلًا" یعنی اس برتن میں بیس کیل کی گنجائش ہے - "وَوَسِعَتْ رَحْمَةُ اللّٰهِ كُلَّ شَيْءٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ" اللہ تعالیٰ کی رحمت سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے "وَمَا وَسِعَ هَذَا" میں اس کی طاقت نہیں رکھتا - "لَا يَسْعُكَ اَنْ تَفْعَلَ هَذَا" تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم یہ کرو - تم اس کے کرنے پر قادر نہیں ہو "وَوَسِعَ الْقَوْمُ فَضْلَهُ" اس کا فضل ساری قوم کو عام ہے "وَوَسِعَ الْمَالُ الدِّیْنَ" یعنی مال

بست ہے یہاں تک کہ سارے قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہے -

وَسِعَ یَوْسَعُ وَنَسَعًا اللّٰهُ عَلَیْهِمْ رِزْقَهُ : بَكْرَتِ دِیْنَا كَشَاوَهُ كَرْنَا - اَوْر كَمَا جَاتَا ہے "وَسِعَ عَلَیْهِ" جبکہ غنی کر دے -

وَسِعَ یَوْسَعُ سَعَةً وَنَسَاعَةً الْمَكَانُ كَشَاوَهُ ہونا - الْفَرَسُ : كَشَاوَهُ تَدَمُ ہونا -

اَوْسَعُ مَالِدَارُ ہونا - الْمَوْضِعُ : كَشَاوَهُ پانا - التَّفَقُّةُ : بَسْتُ خَرَجَ كَرْنَا - وَوَسِعَ كَشَاوَهُ كَرْنَا - اللّٰهُ عَلَیْهِ : مَالِدَارُ بَنَاتَا - اَوْ وَسَعَةً الشَّیْءِ : كَبْسِی جِز كُو گنجائش کا بنانا -

تَوَسَّعَ كَشَاوَهُ ہونا - الْقَوْمُ فِی الْمَكَانِ كَشَاوَهُ كَرْنَا - التَّوَجُّلُ فِی التَّفَقُّةِ : زِیَادَةُ خَرَجِ كَرْنَا -

اِتَّسَعَ - كَشَاوَهُ ہونا - التَّوَجُّلُ : صَاحِبِ دَسَعَتِ وَ مَالِدَارُ ہونا - التَّهَازُ : طَوِیْلُ دَرَاوَزِ ہونا -

اِسْتَوْسَعَ - كَشَاوَهُ ہونا - الشَّیْءِ : كَشَاوَهُ پانا یا طلب کرنا -

الْوَاسِعُ - فَا - كَشَاوَهُ - فِی الْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰی اللّٰهُ تَعَالٰی كَی اَسْمَاءِ حَسَنٰی مِیْنِ سَی ہے جس کے معنی ہیں بست دینے والا یا ہر چیز پر احاطہ کرنے والا -

الْوَسْعُ وَ الْوَسْعُ الْوَسْعُ - طَاقَتُ - كَمَا جَاتَا ہے "لَیْسَ فِیْهِ وَوَسْعُهُ اَنْ یَفْعَلَ كَذَا" یعنی اس کے کرنے پر وہ قادر نہیں -

السَّعَةُ وَ الْوَسْعَةُ وَ التَّوَسُّعَةُ : گنجائش السَّعَةُ : تَوَاغُرُی - غَنٰی - طَاقَتُ - تَدْرَتُ -

الْوَسْبِعُ - كَشَاوَهُ - مِّنَ الْخَبْلِ : كَشَاوَهُ تَدَمُ گھوڑا -

الْوَسَاعُ مِّنَ الْخَبْلِ : عَمَدٌ یَا كَشَاوَهُ تَدَمُ گھوڑا - وَوَسَفَ تَوَسِّیْفًا - الشَّیْءِ : جَمِیَانَا -

تَوَسَّفَ الشَّیْءُ : جَمَلًا - التَّبَیْضُ : مَوْتَا ہونا اور پڑانے ہال گر کرنے ہال لگانا - اَوْ تَاوَزَ الْاَبْلَ اُونٹ کے اون کا بھڑکانا -

وَسَقَ یَسِقُ وَ سَقًا الشَّیْءُ : جَمْعُ كَر كَی اُطْحَاثَا - التَّبَیْضُ : اُونٹِ پَر اِیْکِ وَ سَقَ (سائٹھ صاع) لادنا - اَوْ سَقَّتِ التَّقَاةُ وَ حَیْزُهَا : اُونٹِی كَا حَامِلُہ

ہونا - صَفَتْ وَ اَسْبَقَتْ وَ اَسْبَقَتْ وَ اَسْبَقَتْ اَوْر مَوَاسِقُ وَ مَوَاسِقُ خِلَافِ قِیَاسِ جَمْعِ اَیْیِیْنِ -

وَسَقَّتِ الْعَیْنُ الْمَاءَ : اَنكَمَ مِیْنِ پَانِی ہونا - كَمَا جَاتَا ہے "لَا اَفْعُلُ ذٰلِكَ مَا وَسَقَّتْ عَیْنِی الْمَاءَ" میں اس کو نہیں کروں گا جب تک میری آنکھوں میں پانی ہے - وَ سَقَّتِ التَّخْلَةُ : پھل دار ہونا - وَ سِقًا التَّبَیْضُ : ہانگنا -

وَسَقَّ الْحِنَطَةَ : سائٹھ سائٹھ صاع کا گیہوں کا ڈھیر لگانا -

اَوْسَقَ اِنْسَاقًا الدَّابَّةَ : لادنا - اَوْ سَقَّتِ التَّخْلَةَ : بَسْتُ پھل دار ہونا -

وَ اِسْقَهُ مَوَاسِقَةً : رِبَارِی كَرْنَا - مَقَابِلَ كَرْنَا - اِنْسَقَ الْاُمُرُ : مَرْتَبُ ہونا - الْاَبْلُ : اُونٹوں کا اکٹھا ہونا - الْقَمَرُ : چاند کا پورا ہونا -

اِسْتَوْسَقَ اِسْتِیْسَاقًا : اَكْثَا ہونا - الْاُمُرُ : مَرْتَبُ ہونا - لَهَ الْاُمُرُ : مَمكِنُ ہونا -

الْوَسْقُ - مَم - سائٹھ صاع - اَوْر یَقُولُ بَعْضُ اِیْکِ اُونٹِ كَا بُو جِجِ اَوْ سَاقُ - الْوَسْقُ - دَرِخْتُ خَرْمَا كَا بُو جِجِ اَوْ سَاقُ وَ وُسُوقُ -

الْوَسِیْقُ - مَم - دھسکار - بَارَشُ -

الْوَسِیْقَةُ مِّنَ الْاَبْلِ : اُونٹوں کا گدہ - جِ وَ سَاقُ - الْوَسِیْقَةُ : حَامِلُہ - كَمَا جَاتَا ہے نَاقَةٌ وَ سِیْقَةٌ : حَامِلُہ اُونٹِی -

المُتَسَّقِ عِنْدَ اَهْلِ الْعُرُوْضِ : اَوْر اِن شَعْرُ مِیْنِ اِیْکِ وَ زَن - جِس كَا نَامُ تَدْرَاكُ جِی ہے -

المُتَسَّقِ : چاند کا نام -

المِیْسَاقُ مِّنَ الْحَصَامِ : بَرِیے بازوؤں والا کبوتر جِ مِیَاسِقُ وَ مَاسِقُ - المِیْسَاقُ : پرنہ جو اڑنے میں پھڑپھڑائے -

وَسَلَّ یَسِلُ وَ سَبَلَةً وَ وَسَلَّ وَ تَوَسَّلَ اِلٰی اللّٰهِ یَعْمَلُ اَوْ وَ سَبَلَةً : تَقْرَبُ حَاصِلُ كَرْنَا - صَفَتْ وَ اَسَلَّ -

الْوَابِلَةُ وَ الْوَابِلَةُ : تَقْرَبُ حَاصِلُ كَرْنَا كَا ذَرِیْعُ وَ سَبِلٌ وَ وَسَائِلُ وَ وَسَلَّ الْوَابِلَةُ وَ الْوَابِلَةُ : مَرْتَبَہ - دَرَجَہ -

وَ سَمَهُ یَسْمُهُ وَ سَمًا وَ سَمَةً - دَارُ لگانا - وَ سَمَ الْوَسْمِیَ الْاَرْضُ : ہمار کی پہلی بارش ہونا -

کرنے کو کرتا۔

المیشاق۔ آره۔

المؤشور۔ مفع۔ فی علم الطبیعیات : علم طبیعیات کی اصطلاح میں اس بلوری جسم کو کہتے ہیں جس کے تین ضلعے ہوں۔ ج مؤاشیر۔

وَمَوْشِرٌ وَمَوْشَرٌ۔ جلدی کرتا۔

تَوْشَرٌ لِلشَّرِّ۔ آلودہ برائی ہونا۔

المؤشور والمؤشور۔ جلدی۔ بلند مکان۔ جس کی پہاڑی جائے۔ تخی زندگی ج مؤاشاز۔

المؤشورۃ۔ ست بھرا ہوا کلیجہ و مؤاشاز۔

وَسَطٌ يَسْطُو وَيَسْطُو وَسَطًا الْعَظْمُ۔ ہڈی کا ٹکڑا توڑنا

— الفاص۔ کھڑے میں پیر کا کرسوراخ تنگ

کرتا۔ القوم ایتنا۔ کم لوگوں کا آکر ملنا۔

المؤشيط۔ تالغ۔ طیف۔ قوم میں اجنبی آدمی

طاہر۔ عیس۔ مختلف النسل لوگ۔ ج مؤاشاط

(والمؤشيطۃ) کڑی کا ٹکڑا جس سے پیالہ کو

جوڑیں۔ کہا جاتا ہے "ہم وشیطۃ فی قومہم"

وہ لوگ اپنی قوم میں فرومایہ ہیں۔ اور ایسا ہی "ہو

وشیطۃ فیہم" ج مؤاشاط۔

وَسَعٌ يَسَعُ وَسَعًا الشَّيْءُ۔ مٹانا۔ القطن :

زردی کو لپیٹنا) — وشاعو وشوما) الجبل ولیہ : پہاڑ پر

چڑھنا — البقعة : پھولدار ہونا — الشئ :

بلند ہونا۔

وَسَعٌ الْقَطْنُ : روئی دھننے کے بعد لپیٹنا —

القُوبُ : کپڑے پر نقش و نگار کرنا — السَّيْبُ

وَأَسَةٌ : سر میں سفیدی چھا جانا — الشئ فی

الشئ : داخل ہونا۔ وشفوا علی کرمہم او

بشعابہم بارع میں باڑ لگانا۔

أَوْشَعُ الْبَقْلِ أَوْ الشَّجَرِ : بزمی یا درخت کا

پھول دار ہونا۔

تَوْشَعُ الشَّيْءِ : پر آئندہ ہونا — فی الجبیل

پہاڑوں میں دائیں بائیں جانا — السَّيْبُ وَأَسَةٌ : سر

میں سفیدی چھا جانا۔ تَوْشَعُوا الْعَشْرَ : ہر

ایک کاموں کی ایک جماعت کو اپنے گھر لے

جانا۔ تَوْشَعُ بِهِ : بست ہونا — بالكُوبُ :

جموٹ سے مزین ہونا — الْعَنْقَمُ فی الجبیل :

بکریوں کا چرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا۔

المؤشع۔ مہ۔ بزمیوں کے ٹھونے۔ پہاڑ میں

تھوڑی سی نباتات ج مؤشوع۔

المؤشع۔ کڑی کا جانا۔

المؤشوع۔ پہاڑ میں متفرق نباتات۔ طلق میں

پکانے کی دوا۔

المؤشوع۔ کپڑے کا نقش و نگار باغ کے ارد گرد

کی باڑ۔ مکان کی چھت یا پٹائی وغیرہ جو چھت کے

قائم مقام ہو۔ خشک ہو کر گرا ہوا درخت۔ سردار

الکفر کا خیمہ جہاں سے وہ فرج کی نقل و حرکت کو

دیکھ سکے۔ کنوئیں کے سرے کی موٹی سی کھڑی

جس پر کھڑے ہو کر پانی نکھینیں۔

المؤشيعۃ۔ رنگ برنگ کے سوت لپٹنے کی

کڑی، بننے والے کی نال، ہر پیچیدہ چیز۔ غبار کی

دھاری ج مؤشيع و مؤشيع۔

المؤشع۔ مفع۔ بُزْدٌ مَوْشَعٌ : منقش و دھاری

دار چادر۔

وَسَعٌ يَسَعُ وَسَعًا يَبُولُهُ : پیشاب کرتا۔

وَسَعٌ الْقُوبُ بِالذَّمِّ : کپڑے پر خون لٹ پت کر

کے دھاری دار کر دینا۔

أَوْشَعُ الْبَشَاعَا الْعَطِيَّةُ : کم دینا — يَبُولُهُ :

پیشاب کرتا۔

يَوْشَعُ بِالشَّوْبِ : آلودہ ہونا۔

المؤشع والمؤشيع۔ تموڑا۔

المؤشع۔ منہ میں پکانے کی دوا۔

وَسَقَةٌ يَسَقُّ وَسَقًا : خراش کرنا — هـ

بِالرُّمَحِ : نیزہ مارنا۔ وشفق اللحم : گوشت کے

پارچے کاٹ کر خشک کرنا — المؤجل : جلدی

کرتا۔

وَسَقُّ الشئ : کھڑے کھڑے کرتا۔

أَوْشَقُ الشئ فی الشئ : چھٹنا۔

تَوَاشَقٌ وَأَتَشَقُّ الْقَوْمُ الْعُدُوَّ بِأَسْتِجَابِهِمْ

دشمن کو تلواروں سے کھڑے کھڑے کرتا۔

وَأَتَشَقُّ فُلَانٌ اللَّحْمَ : گوشت کے پارچے کاٹ

کر خشک کرنا۔

المؤاشيق۔ فہ۔ تموڑا دودھ۔ جلدی سے گزرنے

والی چیز جیسے عمر اور زمانہ۔ باشیق میں ایک لغت۔

المؤشوق۔ مہ۔ متفرق چراگاہ۔

المؤشوق۔ ایک جانور کا نام جس کی کھال سے عمدہ

پوستیں تیار ہوتی ہے۔

المؤشيق والمؤشيقۃ۔ خشک کیا ہوا گوشت کا

پارچہ و مؤاشيق۔

المیشاق۔ کچی کا اندازہ۔ ج مؤاشيق۔

وَشَكٌّ يَوْشَكُ وَيَوْشَكًا وَيَوْشَاكَةً وَيَوْشَكًا

الأمؤ : جلدی ہونا۔ صفت و شينك۔

أَوْشَكٌ۔ جلدی چلنا اور قریب ہونا اور اسی

سے ہے أَوْشَكٌ أَنْ يَمُوتَ وہ مرنے کے قریب

ہی تھا۔ اور یہ افعال متقاربه میں سے ہے۔

مضارع کا استعمال ماضی سے زیادہ ہے اور اسم

فاعل کا استعمال بست کم ہے اور اس کی خبر پر اکثر

أَنْ آتا ہے۔

وَأَشَكَّ مَوَاشِكَةً۔ جلدی چلنا۔

المؤشك والمؤشك والمؤشكان

والمؤشكان والمؤشكان۔ جلدی۔ اور کہا جاتا

ہے "وَشَكَّانٌ مَا يَكُونُ ذَلِكَ" یعنی یہ جلدی

ہوا۔ یا یہ کس قدر جلدی ہونے کو ہے۔ اور یہ

اسم فعل ہے۔

المؤشاك۔ جلدی۔

المؤشيك (فد کرو منٹ) جلد باز۔ قریب۔ کہا

جاتا ہے "تَخْرَجُ وَيَشِيكُ" وہ جلدی نکلا۔

وَسَلَّ يَسِلُّ وَيَسَلًا وَيَسَلًا لَنَا الْعَاءُ : پانی کا

بہنا۔ ٹپکانا — (وَسَلًا) کمزور ہونا۔ محتاج ہونا

— أَلِيَّةٌ : عاجزی ظاہر کرنا۔

أَوْشَلُ الْعَاءِ : پانی کی پھان — حَطَلَةٌ : کم کرتا۔

المؤشل۔ تموڑا پانی جو بہاڑا چٹان سے ٹپکے۔

تموڑا آنسو۔ بست پانی یا آنسو (شد) ج مؤشال۔

المؤشل : بیت۔ خوف۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ

الْقَوْمُ أَوْشَالًا" قوم ایک دوسرے کے پیچھے

آئی۔

عَيُونٌ وَهَلَّةٌ : کہانی والے چشمے۔

المؤاشيل۔ فہ۔ مِنَ الْجَبَالِ : پہاڑوں سے

بہنے والی پانی ٹپکے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَأَشِيلُ

الرَّيِّ" فلاں کمزور رائے والا ہے۔ "وَهُوَ

وَأَشِيلُ الْحِطَّةِ" وہ ناقص حصہ والا ہے۔

نَاقَةٌ وَسُوْنٌ : زیادہ دودھ والی۔ کم دودھ والی

اؤشون۔

المؤشون۔ دولت کی کمی۔ نقصان۔

وَشَمٌّ يَسْمُ وَيَسْمًا وَيَسْمُ التَّيْدُ : ہاتھ میں

اور کبھی سستی اور حتمن کیلئے بھی بولا جاتا ہے
الْوَصْبُ: بھرا اور سہا بے کے درمیان کا حصہ۔ ج
أَوْصَافُ۔

الْوَأْصِبُ۔ فاء۔ دائم۔

الْوَأْصِبَةُ۔ واصل کا مؤنث۔ بہت دور تک
پھیلا ہوا بیابان۔

الْمَوْصِبُ۔ بہت دروں والا۔

وَصْدٌ يَصِدُّ وَصْدًا ثَابِتٌ ہونا۔ بِالْمَكَانِ:
اقامت کرنا۔ الْقَوْبُ: کپڑا بنانا۔

وَصْدُ الْقَوْبِ: کپڑا بنانا۔ الْكَلْبُ بِالصَّنْدِ
کتنے کوشکار پر ہرگز کا۔ فَلَانًا: خوف دلانا۔

أَوْصَدَ الثَّيَابَ: دروازہ بند کرنا۔ الْقِدْرُ:
ہانڈی ڈھانکنا۔ عَلَى فُلَانٍ: جھگی ڈالنا۔

الْكَلْبُ بِالصَّنْدِ: کتنے کوشکار پر آسان۔ ہرگز کا
۔ (وَأَسْتَوْصَدُ) پہاڑ میں مویشیوں کے لیے پناہ

بنانا۔

الْوَصَادُ۔ جلاہ۔

الْوَصَادُ۔ أَوْصَدَ الثَّيَابَ وَأَوْصَدَ الْقِدْرَ
اسم بھنے بندش و ڈھکانے۔

الْوَصِيدَةُ۔ چوکھٹ۔ گھر کے سامنے کا صحن
غار پہاڑ قریب قریب جڑوں والی نباتات۔

دوبارہ خند کیا ہوا۔ تنگ اور بند کیا ہوا ج (وصد)
۔ الْوَصِيدَةُ: پہاڑ میں مویشیوں کے لیے

پتھروں کا پناہ ج و صائد۔

الْمَوْصِدُ۔ پردہ۔

الْوَضْرُ۔ عمد ج (أَوْاصِرُ)۔ وَالْوَصِيرَةُ
الْأَوْصُنُ) عمد نامہ چک۔ دستاویز۔ اور بقول

بعض یہ الفاظ معرب ہیں۔

وَصَعٌ يَصْعُ وَصْعًا الشَّنْ: غائب کرنا۔
چھپانا۔

الْوَضْعُ۔ مہ۔ چڑیا سے جموٹا ایک پردہ۔ یا
مولانا ج (وَضْعَانُ)۔

الْوَصِيغُ۔ چڑیا یا چڑیا کے بچوں کی چھجاہٹ۔
وَصْفٌ يَصِفُ وَصْفًا وَصْفَةَ الشَّنْ: بیان

کرنا۔ تعریف کرنا (۔ وَصُوفًا) الْفَرْشُ:
گھوڑے کا عمدہ چال چلانا۔ وَصْفَةُ الْقَلْبِ

لِلْمَرْيُضِ: نسخہ تجویز کرنا۔

وَصْفٌ يَوْصِفُ وَصَافَةَ الْفُلَامِ: لڑکے کا

فِي الذَّرَاهِمِ: کچھ لینا۔

تَوَشَّى۔ نقش و نگار ہونا۔ الشَّيْبُ فِى
زَايِهِ: سر میں سفیدی کا پھیلنا۔

إِنْتَشَى إِنْشَاءً الْعَظْمُ: ٹوٹی ہوئی ہڈی
درست ہونا۔

اسْتَوْشَى الْفَرْسُ: گھوڑے کو آسان۔
الْحَدِيثُ: بحث کرنا اور جمع کرنا۔ الرَّجُلُ:

مانگنا اور ہاتھ میں جو کچھ ہو اسے نکال لینا۔
الْمَعْدُنُ تَحْوَرًا سَاوِيًا يَابًا۔

الْوَشْيُ۔ مہ۔ کپڑے کا نقش و نگار۔ منقش
کپڑے۔ ج و شَاء۔ وَشَى الشَّيْفِ: تلوار کا

جوہر۔
الْوَشَاءُ۔ اونٹوں کی کثرت۔

الْوَأْشِيُ۔ فاء۔ چغل خور۔ بہت اولاد والا۔ یا
بہت مویشی والا۔ جلاہ۔ ج و أَشْوَنُ وَوَأْشَاةُ۔

الْوَأْشَاهُ: سونے کا سکھ بنانے والا۔
الْوَشَاءُ۔ وَاِشَى كَالِاسْمِ مَبْلَغًا۔ منقش کپڑے

بیچنے والا۔

الْيَشِيَّةُ۔ مہ۔ داغ۔ نشان۔ علامت ج
شبیات۔

الْأَشِيَّةُ۔ داغوں والا۔ کہا جاتا ہے "فَوْزٌ أَشِيَّةٌ"
جیسے کہا جاتا ہے "فَوْزٌ أَشِيَّةٌ" اور نسبت کے لیے

وَشَوِيٌّ۔
وَصَّ يَوْصُ وَصًّا الْعَمَلُ: مضبوط بنانا۔

وَصَّصَتْ تَوْصِيصًا الْمَرْأَةُ: منہ کا پردہ تنگ
کرنا۔

وَصِيٌّ يَوْصِي وَصًّا الثَّوْبُ: کپڑا میلا ہونا۔
وَصَّبَ يَصِيبُ وَصْبًا وَصْبًا: ثابت ہونا

۔ الدَّيْنُ: قرض واجب ہونا۔ عَلَى الْأَمْرِ:
مدد مت کرنا۔ خوش السلوبی سے کرنا۔

وَصَبٌ يَوْصِبُ وَصْبًا وَوَصَّبَ وَتَوَصَّبَ۔
مریض ہونا۔ صفت وَصْبٌ ج وَصَائِي وَ

وَصَابٌ۔ تَوَصَّبَ: درد محسوس کرنا۔
أَوْصَبَ: مریض ہونا۔ اللَّهُ فَلَانًا: مریض

کرنا۔ الرَّجُلُ: بیمار اولاد والا ہونا۔ الشَّنْ:
بیش رہنا۔ ثابت ہونا (۔ وَوَأْصَبَ) پیشگی

مدد مت کرنا۔
الْوَصْبُ۔ پیاری۔ دائمی درد۔ جسم کی لاغری

گودنا۔ وَشَمَ الْفُضُنُ: شئی میں پتے ظاہر ہونا۔

أَوْشَمَ إِنْشَاءً الْمَكَانُ: ہریالی ہونا۔
الْكُومُ: انور کا رنگ پکڑنا۔ الشَّيْبُ فِى

زَايِهِ: بوجھا پکی سفیدی پھیلنا۔ الْبَرَقُ: بجلی
کا آہستہ چمکانا۔ السَّمَاءُ: بجلی گودنا۔ فِى

عِزِّضِ فُلَانٍ: گالی دینا۔ عیب لگانا۔ فِى
الْأَمْرِ: غور و فکر کرنا۔ أَوْشَمَتِ الْحَارِيَّةُ:

پستان کا بھرا شروع ہونا اور کہا جاتا ہے "أَوْشَمَ
يَفْعَلُ كَذَا" وہ ایسا کرنے لگا۔

اسْتَوْشَمَ اسْتِنْشَاءً۔ گودنے کیلئے کرنا۔
الْوَشْمُ۔ مہ۔ گودائی۔ گودنے کا اثر۔ نباتات

کی پہلی روئیدگی۔ ج و شَوْمٌ وَوَشَامُ۔
الْوَشْمَةُ۔ وَشَمَ كَالِاسْمِ مَرَّةً بَارِشًا كَالْقَهْرِ۔ کہا

جاتا ہے "مَا عَصَاةُ وَشْمَةٌ" اس نے اس کی ذرا
بھی نافرمانی نہیں کی۔

الْوَيْشِيَّةُ۔ دشمنی برائی۔
تَوَشَّنَ الْمَاءُ: پانی کم ہونا۔

الْوَشْنُ۔ بلند زمین۔ مونا آؤنٹ۔
الْأَوْشَنُ۔ دوسرے کے دسترخوان پر کھانا

کھانے والا۔
وَشَوْشٌ وَوَشْوَشَةٌ فَلَانًا: آہستہ گفتگو کرنا

۔ هَالِشِيٌّ: دیر سے دینا۔
تَوَشَّوْشَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے آہستہ

آہستہ گفتگو کرنا۔
الْوَشْوَشُ وَالْوَشْوَاشُ۔ ہلکا جلد باز۔

رَجُلٌ وَوَشْوَيْشِيٌّ الذَّرَاغُ: کام کرنے میں پھر پھیلنا
مرد۔

وَشَى يَشِي وَيَشِي وَيَشِيَّةٌ وَوَشَى الْقَوْبُ:
منقش کرنا۔ الْكَلَامُ: جموٹ بولنا۔ وَشَاءَ

لِقَوْلَا: کپڑا پہنانا۔
وَشَى يَشِي وَيَشِي وَيَشِيَّةٌ وَيَشِيَّةٌ بِهِيَ إِلَى الْمَلِكِ:

چغل خوری کرنا۔ يَتَوَفَّلَانِ: بکھرت ہونا۔
أَوْشَى إِنْشَاءً الْمَكَانُ: ابتدائی نباتات ظاہر

ہونا۔ الرَّجُلُ: بہت مویشی والا ہونا۔
الْمَعْدُنُ: کان میں تھوڑا سا سونا پایا جانا۔

التَّخْلَةُ: پہلا چمک لگانا۔ الشَّنْ: نکالنا۔ جانا
۔ الْفَرْسُ: گھوڑے کو آسان۔ الدَّوَاءُ

الْمَرْيُضِ: دوا کا مریض کو تندرست کرنا۔

وصل

وصل

وصنی

خدمت کے قابل ہونا اور اچھی طرح سے خدمت کرنا۔ صفت و صیغہ اور اسم الإيضاف والوصافة۔
 واصفہ۔ حالت بیان کر کے پج کرنا۔
 أوْصَفَ بِإِضَافَةٍ۔ خدمت کے قابل ہونا۔
 ائْصَفَ الشَّيْءُ: قابل بیان ہونا۔ الرَّجُلُ: عمرہ صفات سے مشہور ہونا — بِالصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ: آراستہ ہونا۔
 تَوْصَفُ وَصِفًا أَوْ وَصِيفَةً: خادم بنانا۔
 تَوَاصَفَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ: ایک کا دوسرے سے بیان کرنا۔
 اِسْتَوْصَفَ فَلَانًا الشَّيْءَ: بیان کرنے کو کہنا۔
 الطَّلِبُ: نَسْرَ تَجْوِيزًا كَرَانَا — الْفَلَامُ: لڑکے کا قابل خدمت ہونا۔
 الصِّفَّةُ: مہ — نعت۔ خوبی۔ ہر وہ چیز جو موصوف کے ساتھ قائم ہو جیسے علم و ہنر وغیرہ۔ علامت جس سے موصوف پہچان جائے۔
 الصِّفَاتِيَّةُ: ایک فرقہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ واحد صفتائی۔
 الوَصِيفِيَّةُ: صفت کی حالت۔
 الوَصِيفُ: لڑاکو جو خدمت کرنے کے قابل ہو گیا ہو ج و وَصَفَاءُ۔ مؤنث وَصِيفَةٌ ج وَصَائِفُ۔
 الوَصَافُ: وصف شناس۔ طیب۔
 وَصَلَ يَصِلُ وَصْلًا وَصِلَةً وَصَلَةَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ: جوڑنا۔ جمع کرنا — هُ بَالْفِ دِيْنَارٍ اِحْسَانًا كَرَانَا — وَصْلًا وَصِلَةً فَلَانًا: تعلق رکھنا — زَيْدًا: نیک کرنا۔ رتبا و وصل زحمة: رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ مہربانی کرنا۔ نری برتاؤ — وَصُولًا وَوَصْلَةً وَصِلَةً اِلَى الْمَكَانِ: پہنچنا۔ کہا جاتا ہے "وَصَلِبِي الْحَيْثُ وَوَصَلَ اِلَى الْحَيْثُ" مجھے خبر پہنچی "وَصْرَبَةٌ حَضْرَبَةٌ لَا تَوْصَلُ" اس نے ایسی بارش کی کہ جس کا علاج نہیں۔
 وَاصِلَةٌ وَصَالًا وَوَأَصْلُهُ تَعْلُقُ رَكْنًا وَاصِلَ الشَّيْءِ وَفِي الشَّيْءِ: پیشگی کرنا۔ لگانا کرنا۔
 وَصَلَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: جوڑنا — وَوَأَصْلُهُ

فَلَانًا اِلَى كَذَا: پہنچانا۔
 تَوْصَلَ اِلَى كَذَا: پہنچنا — اِلَى فَلَانٍ: پہنچنے کے لیے حیلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَوْصَلَ اِلَيْهِ بِوَصْلَةٍ وَنَسَبٍ" اس نے اس کے پاس پہنچنے کیلئے تعلق اور سبب کہ حیلہ بنایا۔
 تَوَاصَلَ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے سے تعلق رکھنا۔
 اِتَّصَلَ بِالشَّيْءِ: جڑنا — اِلَيْهِ: پہنچنا — بَيْنَ خَيْرِ فَلَانٍ: جاننا — فَلَانٌ بِالْوَزْنِ: خدمت میں رہنا — اِلَى بَيْتِ فَلَانٍ: منسوب ہونا۔
 اِسْتَوْصَلَ: میل ملاپ ڈھونڈنا۔
 الوِصْلُ: مہ — لَبَنَةُ الوِصْلِ: قمری مینے کی آخری رات۔ خَزْفُ الوِصْلِ عِنْدَ اَهْلِ الْقَوَالِينِ: اہل عروض کی اصطلاح میں رومی سحرک کے بعد کے حروف واو۔ یا۔ اور الف اور باء۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا وَصْلٌ هَذَا" یہ اس کے منس ہے۔
 الوِصْلُ وَوِصْلُ: ہر عضو علیحدہ علیحدہ ج اَوْصَالُ۔
 الوِصْلَةُ: مہ۔ تعلق۔ دو چیزوں کو ملانے والی چیز۔ ہم سفر جماعت۔ ذور کی زمین۔ ج وِصْلُ۔
 الصِّلَّةُ: مہ — عَطِيَّةٌ۔ احسان۔ انعام۔ ج صِلَاتُ۔
 الوِصُولُ: بہت میل ملاپ رکھنے والا۔ بہت دینے والا۔
 الوِصُولُ مہ — عِنْدَ الْمُؤَلَّدِينَ: رسید۔ ج وَصُولَاتُ۔
 وَصِيلُ الرَّجُلِ: بیشہ ساتھ رہنے والا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا رَجُلٌ وَصِيلٌ هَذَا" یہ اس کے منس ہے۔
 الوِصِيْلَةُ: وَصِيلٌ كَمَا مَوْنَتُ — عِمَارَتُ — ارزانی۔ کسی چیز کو جوڑنے والی چیز۔ ہم سفر گروہ۔ دھاگے کا گولا۔ دور کی کشادہ زمین ج وَصَائِلُ۔
 الوِصِيْلَةُ: بچن کا ایک دھاری دار کپڑا ج وَصِيْلٌ وَوَصَائِلُ الوِصِيْلَةُ: اونٹنی جو لگاتار دس سال تک بچے دے۔ بکری جو سات سال تک جڑواں مادہ بچے دے۔
 الوِصِيْلُ: ملنے کی جگہ۔ رسی وغیرہ کی گرہ۔

موت مؤویل البعير: چوتراور آن کا درمیانی حصہ۔ المؤصل: عراق اور جزیرہ کے درمیان ایک شہر کا نام۔
 المؤصلان: شہر موصل اور جزیرہ۔
 المؤصُولُ: مہ۔ بھڑکی شکل کا ایک جانور۔
 المُسْتَوْصِلُ: فا۔ المُسْتَوْصِلَةُ مِنَ التَّيْسَاءِ: اپنے بال میں دوسرے کے بال کو گلوانے والی عورت۔
 وَصَمَ يَصِمُ وَصْمًا وَوَصْمًا أَوْ الْعَظْمُ: لکڑی یا ہڈی میں شکاف ڈالنا — الشَّيْءُ: عیب لگانا۔ جلدی سے ہانڈنا۔
 وَصَمَ الرَّجُلُ: سستی و کالی اور اعضا سفنی والا ہونا — فَلَانًا: دردناک کرنا۔ ست و کالی کرنا۔ وَصَمَتِ الْحُمَى فَلَانًا: دردناک کرنا۔ تَوْصَمَ: تکلیف اٹھانا۔
 تَوَاصَمَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ: ایک دوسرے کو عیب لگانا۔
 الوِصْمُ: مرض۔
 الوِصْمُ: مہ۔ لکڑی کی گانٹھ۔ عیب و عار۔ ج وَصْمٌ۔
 الوِصْمَةُ: عیب و عار۔ جسم کی سستی۔
 الوِصِيمُ: خضر اور بھرے کے درمیان کشادگی۔
 الوِصْمُومُ: مہ۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَوْصُومٌ الْحَسَبِ" عیب دار مرد۔
 وَوَصْوَصَ عَيْتَهُ: نظر جماتے کیلئے آنکھ چھوٹی کرنا۔ پردے کے سوراخ سے دیکھنا — الْعَجْرُ: بچے کا آنکھیں کھولنا۔ وَوَصْوَصَتِ الْجَارِيَةُ: برقع سے سوائے آنکھوں کے دکھائی نہ دینا۔
 الوِصْوَصُ وَوِصْوَصٌ: آنکھ کے برابر پردہ وغیرہ کا سوراخ۔ چھوٹا برقع ج وَوَصَادِصٌ وَوَصَائِفُصٌ: الوِصْوَصُ: سطح زمین کے پتھر۔
 وَوَصِيصٌ: وَوَصِيصٌ عَالِي مَرْتَبَةٍ ہونے کے بعد خیس ہونا — الشَّيْءُ بہ: متصل ہونا — الشَّيْءُ بِأَخْرَجَ: ملانا (— وَوَصِيصٌ وَوَصَائِفُصٌ: المتصل نباتات والی ہونا — التَّبَثُ: بہت ہونا اور متصل متصل ہونا۔
 وَوَصِيصٌ تَوْصِيصَةً فَلَانًا بِكَذَا: کسی کام کا عمدہ لینا۔ کسی کام کا اشارہ کرنا — اِلَيْهِ بِالصَّلَاةِ: حکم دینا۔ کہا جاتا ہے "وَوَصِيصٌ فَلَانًا اَنْ يُصْحِبَ"

إِلَيْهِ“ فلاں کے ساتھ اس کو احسان کرنے کا حکم دیا۔ ”وَوَصَّيْتُ لَكُمْ بَعْدَ مَوْتِي“ میں نے اس کو اپنے مرنے کے بعد مالک بنایا۔ وَصَّى إِلَى فَلَانٍ : مرنے کے بعد اپنے مال و اولاد پر وصی بنانا۔ فَلَانًا بَوْلِيهِ : مریبان بنانا۔

أَوْصَى إِيضًا فَلَانًا بِكَذَا : کسی کام کا عہد لینا۔ حَمَّ دَنَا — لَدَيْكَذَا : کسی کیلئے کسی چیز کی وصیت کرنا۔ — إِلَيْهِ : وصیت جاری کرنے والا مقرر کرنا۔

وَاصَى الْبَلَدَ الْبَلَدَ : ایک شہر کا دوسرے شہر کے متصل ہونا۔

تَوَاصَى تَوَاصِيًا الْقَوْمُ : ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔

اسْتَوْصَى اسْتِئْصَاءً بِفُلَانٍ : وصیت کو قبول کرنا۔

الْوَصِيَّةُ : ایضاً کا اسم ہے جس چیز کی وصیت کی جائے اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”هَذِهِ وَصِيَّتِي“ یہ اس کی وصیت ہے ج وَصَايَا وَصَايَا اللَّهُ : اللہ تعالیٰ کے احکام جو اس نے اپنے بندوں پر واجب کیے ہیں۔ الوصِيَّةُ : کجھور کی نشی جس سے گھسا باندھتے ہیں۔ ج وَصِيَّةٌ :

الْوَصَاةُ ج وَصَى وَالْوَصَايَةُ وَالْوَصَايَةُ وصیت کجھور کی نشی جس سے گھسا باندھتے ہیں۔ الوصِيَّةُ (مذکر مؤنث) وصیت کرنے والا۔ جس کو وصیت کی جائے۔ ج أَوْصِيَاءُ :

الْوَصِيَّةُ : پچھیدہ گھاس۔ أَرْضٌ وَاصِيَةٌ : پچھیدہ گھاس والی زمین۔ وَضَوْ يُوضُو وَضُوءًا أَوْ وَضَاءً الشَّيْءُ :

پاکیزہ و خوبصورت ہونا۔ وَضَاءً يَضُوءُ وَضَاءً : پاکیزگی و خوبصورتی میں غالب ہونا۔

وَضَاءً تَوْضِيَةً بِالْمَاءِ : پاکیزہ کرنا۔ دھونا۔ وَاضَاءً : پاکیزگی و خوبصورتی میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے ”وَاضَاءً فَوَضَاءً“ اس نے اس سے پاکیزگی و خوبصورتی میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔ تَوْضَاءً بِالْمَاءِ لِلْمَضَلَةِ : وضو کرنا۔ الْغُلَامُ وَالْحَوَايَةُ : بالغ ہونا۔

الْوَضُوءُ۔ وضو کو پانی۔

الْوَضِيءُ ج وَضَاءٌ وَأَوْصِيَاءُ وَالْوَضِيءُ ج وَضَاءٌ وَالْوَضَاءُ ج وَضَاءٌ وَن وَالْوَضِيءُ : پاکیزہ و خوبصورت۔

الْأَوْضَاءُ : زیادہ خوبصورت و پاکیزہ۔

الْمِيضَاءُ وَالْمِيضَاءَةُ۔ وضو کرنے کی جگہ۔ لوٹا۔

الْمُتَوَضِّئُ : وضو کرنے کی جگہ۔ یا سخاوند کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

وَضَحٌ يَضُحُ ضَحَّةً وَضَحَةٌ وَوَضُوحًا وَتَوَضَّحَ وَاتَّضَحَ الْأَمْرُ وَالْكَلَامُ : واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔ صفت واضح و وضاح۔

وَضَحٌ يَوْضُحُ وَضَحًا : برص کے داغوں والا ہونا۔

أَوْضَحَ الْأَمْرُ : ظاہر ہونا۔ واضح ہونا۔

الْأَمْرُ : ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔ أَوْضَحْتَ الشَّجَّةَ فِي الرَّاسِ زَمَمٌ كَأَمْزِي كَوَظَاهِرِ كَرِيئَةٍ : واضح فہمی زاہبہ : زخم کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مِنْ أَيْنٍ أَوْضَحْتَ“ تم کہاں سے آئے۔

وَضَحَ الْأَمْرُ : واضح کرنا۔ ظاہر کرنا۔

اسْتَوْضَحَ اسْتِئْصَاءً حَاعِنَ الْأَمْرُ : بحث کرنا۔

— هُ الْأَمْرُ أَوْ الْكَلَامُ : وضاحت کرنا۔ الشَّيْءُ وَعَنِ الشَّيْءِ : آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا۔ الشَّمْسُ : نگاہ تک کر کے گھورنا۔

الْوَضْحُ : مہ۔ روشنی و سپیدی صبح۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَهُ فِي وَضْحِ الصُّبْحِ“ وہ سفیدی صبح کے وقت آیا۔ الوَضْحُ : چاندنی۔ گھوڑے کی پیشانی یا ٹانگوں کی سپیدی۔ بڑھاپے کی سپیدی۔ برص کی سپیدی کھر اور ہم۔ کہا جاتا ہے ”ذَرَاهِمُ وَضْحٌ“ مؤنث یا تشبیہ جمع نہیں لاتے جیسے ”إِمْرَأَةٌ قَوْمٌ“

میں مؤنث یا تشبیہ یا جمع نہیں لاتے۔ الوَضْحُ : دودھ۔ چھوٹی چھوٹی گھاس۔ چاندی کا زیور۔

پازرب۔ ج أَوْضَاحٌ وَضَحٌ الْقَطْرِيُّ : شاہراہ۔ وَضْحُ الْقَدَمِ : لکڑے کی سپیدی۔ أَوْضَاحُ مِنَ النَّاسِ : مختلف قبائل کی جماعتیں (اس کیلئے واحد نہیں)

الْوَضْحَةُ : گدھی۔ الوَاضِحُ : ظاہر۔ نمایاں۔ وَاضِحٌ

الْحَسْبُ : پاک صاف حسب والا۔ الوَاضِحُ مِنْ الْأَيْلِ : سفید اونٹ جس کی سفیدی بہت زیادہ نہ ہو۔

الْوَاضِحَةُ : واضح کامؤنث ج وَاضِحَاتٌ وَأَوْضِحُ : الواضِحَةُ : دانت جو ہستے وقت ظاہر ہوں۔

الْوَضَّاحُ : سفید رنگ والا۔ خوبصورت چہرہ والا۔ بہت مسکرائے والا۔ دن۔ التَّسْبُ الوَضَّاحُ : پاک صاف نسب۔ يَكْزُرُ الوَضَّاحُ : صبح کی نماز۔

الْوَضِيحَةُ : سوسنی ج وَضَائِحُ : الْمُتَوَضِّحُ : ظاہر ہونے والا۔ شاہراہ پر چلنے والا۔

— مِنْ الْأَيْلِ : سفید اونٹ جس کی سفیدی بہت زیادہ نہ ہو۔

وَضَحٌ يَضُحُ وَضَحًا لِلدَّلْوِ : ڈول کو پانی سے آدھا بھرنا۔

أَوْضَحَ الدَّلْوُ : ڈول کو پانی سے آدھا بھرنا۔ أَوْضَحْتَ البَيْتُ : کنوئیں کا کم پانی والا ہونا۔ أَوْضَحَ بِالدَّلْوِ : کہاں کھینچنا۔

وَاضَحَهُ وَضَّاحًا وَوَضَّاحَةً : پانی کھینچنے یا دوڑنے یا چلنے میں مقابلہ کرنا۔

تَوَاضَعَ الْقَوْمُ : پانی کھینچنے یا دوڑنے یا چلنے میں مقابلہ کرنا۔

الْوَضُّوحُ : پانی جو نصف ڈول تک ہو۔ پانی کھینچنے کی چیز۔

وَضْرٌ يَوْضِرُ وَضْرًا : میلا کھیلا ہونا۔ چکناہٹ سے میلا ہونا۔ صفت مذکر و صر۔ صفت مؤنث وَضْرَةٌ وَوَضْرِيٌّ : کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ وَضْرٌ الْأَخْلَاقِ وَفِي أَخْلَاقِهِ وَضْرٌ“ فلاں گندے اخلاق والا ہے۔

وَضْرَةٌ : میلا کھیلا کرنا۔ کہا جاتا ہے ”كَانَ يَقِيضُ الْبَعْرَضُ فَوَضْرَةٌ بِالذَّنَاءَةِ“ وہ پاکیزہ آبرو والا تھا اور روایت سے اس نے میلا کر دیا۔

الْوَضْرُ : مہ۔ چکناہٹ کی وجہ سے میل کھیل، پیالہ وغیرہ کا دھون۔ پیالے میں کھانے کا اثر جج أَوْضَارُ :

الْوَضْرِيُّ : دیرا۔ (وَالْوَضْرَاءُ) ہمارے باہر لگی ہوئی چٹان۔

وَضَعَهُ يَضَعُهُ وَضْعًا كَيْدًا بَنَانًا ذَلِيلٌ كَرِهَ
 وَضَعٌ عَقْفَةٌ كَرُونٌ بِرَارِنَا — الْحَدِيثُ :
 بَاتَ كَرُونَ — الْكِبَابُ : تَأْلِيْفٌ كَرِهَ
 — الْمِيْلَاحُ لِي الْعَدُوِّ : مِتَاحِلٌ كَرِهَ — يَدُهُ
 عَنِ فُلَانٍ : رُوِيَ كَرِهَ — الْحَتَابَةُ عَنِ فُلَانٍ :
 بِلَاكِيٌ دَوْرٌ كَرِهَ — عَضَاهُ : أَقَامَتْ كَرِهَ
 وَضَعَتْ الْمَرْأَةُ حِمَارَهَا : بَعِيٌّ أَوْ حَمِيٌّ كَرِهَ
 هُوَ — مَفْتُوحٌ وَضَعٌ : وَضَعُ الشَّيْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ :
 سَأَلَهُ جَمُورِيًّا — يَدُهُ فِي الْقَلْعَامِ كَمَا —
 الْعِزَّةُ أَوْ الْعِزْبُ : سَأَلَهُ كَرِهَ
 وَضَعٌ يَضَعُ وَضْعًا وَضَعًا وَمَوْضِعًا وَمَوْضِعًا
 الشَّيْءُ : رَكْنَا — الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ : كَرِهَ —
 مِنْ فُلَانٍ مَرْتَبَةً سَمَّاهَا — عَنِ غُرَيْبٍ :
 قَرَضَ دَارَ سَمَّاهَا جَمُورِيًّا — وَضَعًا وَ
 مَوْضِعًا (عَلَى الْبَيْتِ) : سَمَّاهَا كَرِهَ
 وَضَعٌ يَضَعُ وَضْعًا وَضَعَةً وَضِعَةً وَ
 وَضِعًا وَضِعَةً : سَأَلَهُ كَرِهَ
 وَضَعَتْ وَضَعًا وَضَعًا وَضَعًا الْمَرْأَةُ
 حَمَلَهَا : جَنَّا — مَفْتُوحٌ وَضَعٌ
 وَضَعٌ يَضَعُ وَضَعًا وَضَعَةً وَضِعَةً فِي
 بِيْعَارِيَّةٍ : نَقَصَانٌ أَمَانًا — مَفْتُوحٌ وَضَعٌ فِيهَا
 وَضَعٌ يَضَعُ وَضَعَةً وَضِعَةً وَضِعَةً لِيَوْمِ
 هُوَ دُوْنِي هُوَ — نَيْسٌ هُوَ
 وَضَعُ الشَّيْءِ : جَوْرًا — الْحَيْثُ : رُوِيَ بِمَرْكَبٍ
 سَمَّاهَا — وَضَعَتْ التَّمَامَةَ يَضَعُهَا : شَرَّ مَرْغٌ كَرِهَ
 الْبُزُوقُ كَرِهَ رَكْنَا — الْوَجَلُ : ذَلِيلٌ كَرِهَ
 أَوْضَعُ الْبَيْعِيَّةِ : أَوْضَعُ كَرِهَ رُوِيَ — الْبَيْعِيَّةُ
 أَوْضَعُ كَرِهَ رُوِيَ — أَوْضَعُ فِي بِيْعَارِيَّةٍ :
 تِجَارَتٌ مِنْ نَقَصَانِ أَمَانًا
 وَاضِعُهُ وَضَاعًا وَمَوْضِعُهُ : شَرَطٌ لَكَ
 هُوَ فِي الْأَمْرِ : كَسَى مَعَالِمَهُ مِنْ مَوَاقِفَتِ كَرِهَ
 وَاضِعُهُ الْبَيْعِ : بَيْعٌ كَرِهَ رُوِيَ — وَاضِعُهُ الرَّهَانُ :
 شَرَطٌ بَاطِلٌ كَرِهَ — أَوْضَعُ كَرِهَ هُوَ "هَلْمٌ أَوْضِعَتْ
 الرَّاهِيَّةُ" لَيْسِي أَوْضَعُ كَرِهَ رُوِيَ — كَرِهَ رُوِيَ رَأَى
 سَمَّاهَا
 إِنْضَعُ : ذَلِيلٌ هُوَ — عَاجِزٌ هُوَ — لِيَوْمِ هُوَ — حَسْبُ
 مِنْ كَرِهَ هُوَ — الْبَيْعِيَّةُ رَأَيْتُهُ : أَوْضَعُ كَرِهَ
 سَمَّاهَا كَرِهَ رُوِيَ

تَوَاضَعُ : ذَلِيلٌ هُوَ — عَاجِزٌ هُوَ — خَاسِرٌ هُوَ
 تَوَاضَعَتِ الْأَرْضُ : بَسِطَتْ هُوَ — تَوَاضَعُ الْقَوْمُ
 عَلَى كَذَا : تَضَعُ هُوَ — مَا يَبِيْنُنَا : دَوْرٌ هُوَ
 إِنْضَعُ إِنْضَاعًا مَعْنَى : كَلْبَانِيٌّ كَرِهَ
 كَرِهَ — هُوَ فِي ذَيْبِهِ : تَرَضٌ فِي نَزْوِيٍّ كَرِهَ
 الْوَضْعُ : مَعْنَى — جَدُّ : أَوْضَاعٌ
 الْوَضْعَةُ وَالْوَضْعَةُ : جَدُّ — مَرْكَزٌ
 الْوَضْعُ : فَالْمَرْأَةُ وَاضِعٌ : بَعِيٌّ أَوْ حَمِيٌّ كَرِهَ
 عَمْرُوتٌ — نَالِقَةٌ وَاضِعٌ : تَرَضٌ بِبَنَاتٍ فِي رُحُوْمِ
 جَرِيٍّ أَوْ شَيْءٍ
 الْوَضْعُ : نَيْسٌ "دُوْنِي" أَمَانَةٌ : كَمَا جَاءَتْ
 "وَضَعَتْ عِنْدَهُ وَضِعَةً" فِي لَسَانِ الْأَسَدِ كَرِهَ
 أَمَانَةٌ رَكْنَا
 الْوَضْعَةُ : قِيَمَةٌ كَرِهَ — أَمَانَةٌ : تَرَضٌ بِبَنَاتٍ
 عَشْرًا خَرَجَ وَغَيْرُهُ جَوْدُ شَاهِدٍ وَصُولُ كَرِهَ — مَعْنَى بُولَا
 بِيْنَا : لَفْظٌ كَرِهَ جَمَاعَةٌ جَوْ كَسَى مَقَامٌ بِمَقَرِّ كَرِهَ
 جَاءَتْ أَوْ رُوِيَ جَكَدٌ كَرِهَ — الْبَيْتُ كَرِهَ جَمْعٌ فِي
 كَسَى كَرِهَ لَسَانِ كَرِهَ جَمْعٌ — الْبَيْتُ كَرِهَ جَمْعٌ
 فِي كَرِهَ كَرِهَ لَسَانِ كَرِهَ جَمْعٌ وَضَائِعٌ
 الْوَضَائِعُ : سَافِرُونَ كَرِهَ
 الْوَضَائِعُ : مَعْنَى — كَمَا جَاءَتْ "فِي كَلَامِهِ
 تَوَضَّعُ" كَرِهَ كَرِهَ لَسَانِ كَرِهَ جَمْعٌ
 الْمَوْضِعُ وَالْمَوْضِعُ : مَعْنَى — رَكْنَا كَرِهَ جَمْعٌ
 مَوْضِعٌ
 الْمَوْضِعَةُ : مَوْضِعٌ فِي كَرِهَ لَسَانِ كَرِهَ جَمْعٌ
 جَاءَتْ "لَهُ فِي قَلْبِي مَوْضِعَةٌ وَمَوْضِعَةٌ" كَرِهَ
 مِيرَةٌ دُوْنِي كَرِهَ
 الْمَوْضِعُ : مَعْنَى — تَوَاضَعُ هُوَ — كَرِهَ كَرِهَ كَرِهَ
 هُوَ
 الْمَوْضِعُ : مَعْنَى — مَوْضِعٌ الْعِلْمِ : جَمْعٌ
 كَرِهَ عَمْرُوتٌ ذَاتِيَّةٌ بِحَثِّ كَرِهَ جَمْعٌ عِلْمٌ
 طِبٌّ فِي جَمْعِ إِنْشَاءٍ مِنْ حَيْثُ الصَّحَّةُ
 وَالْمَعْرُضُ مَوْضِعُ الْكَلَامِ : كَرِهَ كَرِهَ كَرِهَ
 جَمْعٌ فِي كَلَامِ جَارِيٍّ هُوَ — جَمْعٌ مَوْضِعٌ وَ
 مَوْضِعَاتٌ — الْأَخَادِيثُ الْمَوْضِعَةُ : كَرِهَ
 هُوَ بِلَاكِيٌّ
 وَضَعٌ يَضَعُ وَضْعًا وَضِعَةً : أَوْضَعُ كَرِهَ
 جَمْعٌ

وَضَعَهُ يَضَعُهُ وَضْعًا كَيْدًا بَنَانًا ذَلِيلٌ كَرِهَ
 رَكْنَا
 وَضَعٌ يَضَعُ وَضْعًا وَضِعَةً وَضِعَةً لِيَوْمِ
 قَرِيبٌ قَرِيبٌ هُوَ — بَنُو فُلَانٍ عَلَى بَيْتِ فُلَانٍ
 فُلَانٍ كَرِهَ رُوِيَ — الْوَضْعُ : مَعْنَى — جَدُّ : أَوْضَاعٌ
 أَوْضَعُ إِنْضَاعًا مَعْنَى : كَلْبَانِيٌّ كَرِهَ
 تَضَعُ هُوَ — الشَّجَرُ : الْبَيْتُ دُوْنِي كَرِهَ
 أَوْضَعُ كَرِهَ
 إِنْضَعُ إِنْضَاعًا مَعْنَى : كَلْبَانِيٌّ كَرِهَ
 الْوَضْعُ : مَعْنَى — كَمَا جَاءَتْ "فِي كَلَامِهِ
 أَوْضَعُ" كَرِهَ جَمْعٌ — الْبَيْتُ كَرِهَ جَمْعٌ
 فِي كَرِهَ كَرِهَ لَسَانِ كَرِهَ جَمْعٌ وَضَائِعٌ
 الْوَضَائِعُ : سَافِرُونَ كَرِهَ
 الْوَضَائِعُ : مَعْنَى — كَمَا جَاءَتْ "فِي كَلَامِهِ
 تَوَضَّعُ" كَرِهَ كَرِهَ لَسَانِ كَرِهَ جَمْعٌ
 الْمَوْضِعُ وَالْمَوْضِعُ : مَعْنَى — رَكْنَا كَرِهَ جَمْعٌ
 مَوْضِعٌ
 الْمَوْضِعَةُ : مَوْضِعٌ فِي كَرِهَ لَسَانِ كَرِهَ جَمْعٌ
 جَاءَتْ "لَهُ فِي قَلْبِي مَوْضِعَةٌ وَمَوْضِعَةٌ" كَرِهَ
 مِيرَةٌ دُوْنِي كَرِهَ
 الْمَوْضِعُ : مَعْنَى — تَوَاضَعُ هُوَ — كَرِهَ كَرِهَ كَرِهَ
 هُوَ
 الْمَوْضِعُ : مَعْنَى — مَوْضِعٌ الْعِلْمِ : جَمْعٌ
 كَرِهَ عَمْرُوتٌ ذَاتِيَّةٌ بِحَثِّ كَرِهَ جَمْعٌ عِلْمٌ
 طِبٌّ فِي جَمْعِ إِنْشَاءٍ مِنْ حَيْثُ الصَّحَّةُ
 وَالْمَعْرُضُ مَوْضِعُ الْكَلَامِ : كَرِهَ كَرِهَ كَرِهَ
 جَمْعٌ فِي كَلَامِ جَارِيٍّ هُوَ — جَمْعٌ مَوْضِعٌ وَ
 مَوْضِعَاتٌ — الْأَخَادِيثُ الْمَوْضِعَةُ : كَرِهَ
 هُوَ بِلَاكِيٌّ
 وَضَعٌ يَضَعُ وَضْعًا وَضِعَةً : أَوْضَعُ كَرِهَ
 جَمْعٌ

وَطَائِنًا وَطَاءَ الشَّيْءِ: تيار کرنا۔ آسان کرنا۔
وَطَوُّ يُوَطِّئُ وَطَاءَةً وَوَطَوُّهُ الْمَوْضِعُ: نرم
ہوتا۔

وَطَاءٌ تَوَطَّطَ الشَّيْءُ بِرِجْلِهِ: جیسے روندنا
— الفِزَاشُ: بچھونا نرم کرنا — الْأَمْرُ:
درست کرنا۔ آسان کرنا — الْمَوْضِعُ: نرم ہونا
— الشَّعْرُ فِيهِ: لفظاً معنیاً قافیہ دہرانا۔

أَوْطَأَ إِيظَاءً فَلَانًا الْأَرْضَ وَبِالْأَرْضِ:
روندوانا۔ اَوْطَأَهُ فَوَسَّهَ: سوار کرنا۔ اَوْطَأَهُ
عَلَى الْأَمْرِ: موافقت کرنا۔ اَوْطَأَ الشَّعْرَ وَفِي
الشَّعْرِ: لفظاً معنی قافیہ دہرانا۔

وَاطَأَ مَوَاطِئَهُ فَلَانًا عَلَى الْأَمْرِ: موافقت
کرنا — فِي الشَّعْرِ: لفظاً معنی قافیہ دہرانا۔
تَوَطَّطَ فَلَانًا بِرِجْلِهِ: چلنا۔ روندنا — هُ عَلَى
الْأَمْرِ: موافقت کرنا — الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِ:
ایک دوسرے کے موافق ہونا۔

إِتْعَانًا إِيظَاءً وَإِيظَاءً إِيظَاءً الشَّيْءِ: آسان
ہونا۔ تیار ہونا — الْأَمْرُ: درست ہونا اور اناٹا
پہنچنا۔

إِسْتَوْطَأَ الشَّيْءُ: نرم پانا۔
الْوَطْوُؤُ مِمَّا: (— والوظاء) پست و نرم زمین۔
الوظاء والوظاء: فرش۔
الوظاء: وطاء کا اسم مرہ۔ قدم کی جگہ۔ بھیجنا یا
دباؤ۔

الوظاءة والوظوءة: مہ۔ نرمی، آسانی۔ کہا
جاتا ہے ”أَنَا حُبُّ وَطَاءَةِ الْعَيْشِ“ میں خوش
میشی کو پسند کرتا ہوں۔

الوظاءة والوظاءة: راستہ میں گزرنے والے
لوگ۔ الوطاءة: گرمی ہوئی چھوڑیں۔

الوظئی پست۔ نرم آسان۔ ہموار۔ روندنا ہوا۔
الوظئینة: وطنی کا مؤنث۔ بھجور جس کی پھٹی
نکال کر دودھ میں گوندھیں۔ نرم حصیدہ (آٹا) بھی
لا ہوا ایک کھانا) شکر پیڑ لہا ہوا۔

الموظا والموظئ: قدم کی جگہ۔
المينظا پست و نرم زمین۔

الموظا: سف۔ کہا جاتا ہے ”زَجُلٌ مَوْطَأٌ
الْأَكْثَابِ“ نرم اخلاق والا، فیاض ممان نواز
عمر ”وَهُوَ مَوْطَأُ الْعَقَبِ“ وہ ایسا شخص ہے جس

کے پیچھے بہت لوگ چلتے ہیں۔

الوظب: دودھ کی مٹک ج اَوْطَبُ وِوَطَابُ و
اَوْطَابُ وِجِجِ اَوْطَبُ: کہا جاتا ہے صفرت
وظائبة یعنی مرگیا یا قتل کیا گیا۔ الوظب بڑی پستان۔
تحت دل والا مرد۔

الوظبنا: بڑی پستان والی عورت۔
وَوَطَحَهُ يَطْحُهُ وَوَطَحًا وَوَطْحَةً: ہاتھوں سے
زور سے ہٹانا۔

تَوَاطَحَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کے ساتھ برائی یا
جنگ کرنا۔ تَوَاطَحَتِ الْأَيْلُ عَلَى الْحَوْضِ:
اونٹوں کا حوض پر ہجوم کرنا۔

الوظح: مہ۔ کھرا چنگل میں لگی ہوئی مٹی وغیرہ۔
وَوَطَّحَ يَطْحُهُ وَوَطْحًا الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔ پائیدار
کرنا۔ بوجھل کرنا۔ صفت مغولی و طیند و موطؤد
— الْأَرْضُ: سخت ہونے کے لیے کوٹنا —

الشَّيْءِ إِلَيْهِ: ملانا — لَهُ مَتْنَةٌ: تیار کرنا — هُ
إِلَى الْأَرْضِ: جھکاؤ بنا — الشَّيْءُ: حمایت و قائم
ہونا۔ چلنا — الصَّخْرَ عَلَى الْغَارِ: بت پر رکھنا۔
وَوَطَّحَ الشَّيْءَ: بھسنے و طدہ۔

تَوَطَّحَ: مضبوط و حمایت ہونا۔ کہا جاتا ہے ”وَوَطَّحَهُ
فَتَوَطَّحَ“ اس نے اس کو مضبوط کیا پس وہ ہو گیا
”وَتَوَطَّحَتْ لَهُ عِنْدَهُمْ مَتْنَةٌ“ ان کے نزدیک
اس کا مرتبہ قائم ہو گیا۔

الواطلد والوظئيد والموظؤد: مضبوط و
حامت۔

الأوطاد: بہت سے پہاڑ۔
الوظئيدة: عمارت کی بنیاد۔ پایہ و جھد ان ج
وظائید۔ کہا جاتا ہے ”أَنْتَ مِنْ وَطَائِيَةِ الْحَقِّ“ تو
سچائی کا ستون ہے۔ ”وَلَهُ عِنْدَهُ وَطَائِدَةٌ“ اس کے
نزدیک اس کا مرتبہ ہے۔

المينظدة: درست۔
الممتوظا: مضبوط۔ جما ہوا۔ سخت۔ ایک
دوسرے کے پیچھے۔

الوظر: حاربت۔ مٹاؤب۔ ج اَوْطَارُ: کہا جاتا
ہے ”قَضِيٌّ مِثْنَةٌ وَظَرَةٌ وَ اَوْطَارَةٌ“ اس نے اپنی
حاجت پوری کر لی۔
وَوَطَّسَهُ يَطْسُهُ وَوَطْسًا: چری موزہ وغیرہ سے
ٹھوکر مارنا — الشَّيْءُ: توڑنا۔ کوٹنا۔

تَوَاطَسَ: التَمَوُّجُ: موجوں کا باہم ٹکرانا۔
الْقَوْمُ عَلَيَّ: بھیڑ کرنا۔
الوظاس: چرواہا۔

الوظيس: تنور اور جو اس کے مشابہ ہو۔
میدان جنگ۔ کہا جاتا ہے حِمِيَّ الْوَطَيْسِ یعنی
جنگ سخت ہو گئی۔ ج اَوْطِسَةٌ وَوَطْسٌ:
الوظيسنة: معاملہ کی سختی۔

وَوَطْسُهُ يَطْسُهُ وَوَطْسًا: مارنا — هُ عَنْ
فَلَانٍ: ہٹانا۔ دور کرنا — الْحَدِيثُ او الْعَمْرُ:
کچھ بیان کرنا — الْكَلَامُ: وضاحت نہ کرنا۔ کہا
جاتا ہے ”مَمَا وَطَسْتُ لَنَا بِشَيْءٍ“ اس نے ہمیں کچھ
نہیں دیا۔

وَوَطَّسَ الْحَدِيثَ: کچھ بیان کرنا — نَهْ:
معتکوبیا رائے یا عمل کو تیار کرنا — هُ: تمہارا
دینا — الْقَوْمُ عِنْدَهُ: ہٹانا — فِيهِ: اثر کرنا۔ کہا
جاتا ہے ”صَرَّ نَوْدُهُ فَمَا وَطَّسَ الْبَيْهَمَ“ لوگوں
نے اسے مارا اور اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا سناؤ وہ
فَمَا وَطَّسَ الْبَيْهَمَ بِشَيْءٍ لوگوں نے اس سے مانگا
اور اس نے کچھ نہیں دیا۔

وَوَطَّفَ يُوَطِّفُ وَوَطْفًا: گھسیں ابرووں اور لمبی
پلکوں والا ہونا۔ صفت اَوْطَفُ: مؤنث و وظفاء
جِجِ وَوَطْفٌ: ووظف المظطر: زور سے برنا۔
وَوَطَّفَ يَطْفُ وَوَطْفًا: شکار وغیرہ کو بھگانا اور
اس کے پیچھے پڑنا۔

الوظف: مہ۔ اور کہا جاتا ہے ”فِي السَّحَابَةِ
وَوَطْفٌ“ جبکہ بارل لگے ہوئے ہوں۔
ظَلَامٌ اَوْطَفُ: سخت تاریکی۔ سَخَابٌ
اَوْطَفُ: زمین سے قریب بارل۔ عَامٌ اَوْطَفُ
فراخ سالی: عیش اَوْطَفُ: خوشحال زندگی۔
سَخَابَةٌ وَوَطْفَاءٌ: پانی سے بوجھل ہو کر لگا ہوا
بارل۔

الوظفة: تموزے بال۔
الوظاق: خید۔ جِجِ وَوَطَاقَاتُ:
وَظْمَةٌ يَطْمُهُ وَظْمًا: روندنا۔ وظم البشیر:
پردہ لگانا۔

وَظْمٌ يُوَظِّمُ وَظْمًا وَوِظْمٌ يُوَظِّمُ
وَظْمًا: پاستھانہ
روکنا۔

وَظْنٌ يَطْنُ وَظْنًا وَوِظْنٌ يُوَظِّنُ بِالْمَكَانِ:
محلک دلائل وبراہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَلَيْنَا وَعُلٌّ وَاحِدٌ" وہ سب ہمارے خلاف عداوت میں متفق ہیں۔

الْوَعْلَةُ: پہاڑیں بلند جگہ — مِنَ الْقَمِيصِ لَيْسَ كَأَكْمَرِ — وَعَوْلَةُ الْإِبْرِيْقِ: لولٹے کا دست۔

الْمُسْتَوْعِلُ: پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑی بکرے کی جائے پناہ مَسْتَوْعِلَاتُ۔

وَعَمٌّ وَوَعِمٌ وَعَمٌّ وَالْوَعْمَانُ: خوش باش کتا اور اسی سے ہے "عَمٌّ صَبَاحًا وَعَمٌّ مَسَاءً" "وَعَمٌّ بِالْحَيْرِ: نیکی کی خبر دینا۔

الْوَعْمُ: مہ۔ پہاڑ میں نشان جو بقیہ رنگ کے مخالف ہونے سے نام۔

تَوَعَّنَ الشَّيْءُ: پورا لے لینا۔ تَوَعَّنَتِ الدَّابَّةُ: چربائے کا استہانی موٹا ہونا۔

الْوَعْنُ وَالْوَعْنَةُ: سخت زمین۔ زمین میں سفید جگہ جہاں کچھ نہ آجے وغان۔ الُوَعْنُ: جائے پناہ۔

وَعْوَعٌ وَوَعْوَعَةٌ وَوَعْوَاعًا الْكَلْبُ: اوائی۔ بھونکتا۔ الْقَوْمُ: شور مچانا۔ الْقَوْمُ: قوم کو بھڑکھڑانا۔

الْوَعْوَاعُ: مہ۔ لوگوں کی جماعت جو شور مچاتی ہو۔ بیوہ گو۔ گیدڑیا کتے کی آواز دینا۔

الْوَعْوَعُ: گیدڑ۔ لومڑی۔ بیخ طیب۔ بیابان۔ دیدبان ج وعاوع۔ شور مچانا۔ دل اور لوگ الوعوعی: خوش طبع تیز خاطر۔

وَعِي يَعِي وَعِيًا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ الْعَدِيثُ: قبول کرنا۔ غور کرنا۔ یاد کرنا۔

الْأَذُنُ: سنا۔ الْقَيْحُ فِي الْجُحُوحِ: پیپ کا زخم میں جمع ہونا۔ الْجُحُوحُ: زخم سے پیپ ہنا۔ الْعَظْمُ: ہڈی کا ٹوٹنے کے بعد درست ہونا۔

أَوْعَى إِيْعَاءَ الْكَلَامِ أَوْ الشَّيْءِ: یاد کرنا۔ جمع کرنا۔ الرَّادُ وَنَحْوَهُ: برتن میں رکھنا۔ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ: بخل کرنا۔ (و استوعى إِسْتِيعَاءً) الشَّيْءُ سَارِيَةً۔

الْوَعَى: مہ۔ پیپ۔ (و الوعی) شور اور کہا جاتا ہے "مَالِي عِنْدَهُ وَعِيٌ" مجھ سے کوئی چارہ نہیں۔ "فَرَسٌ وَعِيٌ" مضبوط قوی گھوڑا۔ الْوِعَاءُ وَالْوِعَاءُ: برتن ج اوعیة ووع وواع۔

الْوَاعِي: فا۔ واعي النَّيْمِ: سیم کا والی ونگھاس۔ الْوَاعِيَةُ: واعي کا مونت۔ آواز۔ حج۔ کہا جاتا ہے هُوَ أَوْعَى مِنْ فَلَانٍ: وہ فلاں سے زیادہ یاد کرنے والا اور زیادہ سمجھدار ہے۔ "وَهُوَ أَوْعَى مِنْ نَمْلَةٍ" وہ چوٹی سے زیادہ جمع کرنے والا ہے۔ الْوَعِيُّ: یاد کرنے والا۔ فقیر۔

مَوْعَى التُّبَعِ: مضبوط کلائی والا۔ وَغَبٌ يُوْعَبُ وَغَابَةٌ وَوَعْوَبَةُ الْجَمَلِ: اونٹ کا موٹا ہونا۔

الْوَعْبُ: رومی سامان۔ موٹا اونٹ۔ کمزور جسم والا۔ کینہ۔ رزیل۔ ج اَوْعَابٌ وَوَعَابٌ۔ مونت وَغَبَةٌ) — وَالْوَعْبَةُ: بیوقوف۔

وَعْدٌ يُوْعَدُ وَعْدًا الْقَوْمُ: خدمت کرنا۔ وَعْدٌ يُوْعَدُ وَعَادَةً: ضعیف العقل وکینہ ہونا۔ وَأَعْدَةٌ هُوَ أَعْدَةٌ: کسی کے فعل کی نقل کرنا۔ وَأَعْدٌ فَلَانٌ فِي السَّيْرِ: رفتار میں مقابلہ کرنا۔

الْوَعْدُ: ضعیف العقل۔ بیوقوف۔ کینہ۔ بچہ۔ قوم کا خادم۔ غلام۔ ج اَوْعَادٌ وَوَعْدَانٌ وَوَعْدَانٌ مَوْنَتٌ وَعَدَّةٌ: جوئے کا ایک تیر جس کا کوئی حصہ نہیں۔ شکار۔

وَعْرٌ يُوْعَرُ وَوَعْرٌ الْيَوْمُ: سخت گرم ہونا۔ وَوَعْرَةٌ السَّمْسُ: تیز دھوپ پڑنا۔ وَوَعْرٌ يُوْعَرُ وَيَتَعَرُ وَوَعْرًا صَدْرُهُ عَلَى فَلَانٍ: غصے سے بھڑک اٹھنا۔

وَعْرَةٌ تُوْعَرُ عَلَيْهِ: کینہ رکھنے پر راغب کرنا۔ أَوْعَرُهُ إِعْظَامًا: غضبناک کرنا۔ أَوْعَرُ صَدْرُهُ غصے سے بھڑکانا۔ الْمَاءُ: پانی گرم کرنا۔ أَوْعَرُ إِلَى كَذَا: پناہ لینے پر مجبور کرنا۔ الْيَجْنُونُ: سور کے بالوں کو گرم پانی سے صاف کر کے زنج کرنا۔ "أَوْعَرُ الْمَلِكُ لِوَجْلِ أَرْضًا وَأَوْعَرُهُ أَرْضًا" بغیر خراج کے زمین دینا۔ الْقَوْمُ: گرمی کے وقت میں داخل ہونا۔ أَوْعَرُوا بَيْنَهُمْ يَجْعَلُوهُ بَاهِمٍ وَتَمْرًا مَقْرَرًا: باہم وقت مقرر کرنا۔ تَوْعَرٌ: غصے سے بھڑک اٹھنا۔

الْوَعْرُ وَالْوَعْرُ: مہ۔ کینہ۔ دشمنی۔ وَوَعْرٌ الْعَيْشُ لِكُلِّ كَاوَشِرٍ۔ الْوَعْرَةُ: ہم مرہ۔ گرمی کی بھڑک۔ کہا جاتا ہے لَقِيْتُهُ فِي وَوَعْرَةٍ الْهَاجِرَةِ: میں نے اس سے

دوپہری گرمی میں ملاقات کی۔

الْوَعِيرُ: گرم پتھر پر بھنا ہوا گوشت۔ الْوَعِيرَةُ: گرم پتھروں سے گرم کیا ہوا دودھ۔ الْمِينُفَرُ: وقت معین۔ وعدہ۔

وَعَصَّ تَوَعَيْصًا فِي الْإِنَاءِ: برتن میں بھرتا۔ وَوَعَفَ يُوْعَفُ وَوَعْفًا وَوَعْفًا الْبَصَرُ: نگاہ کمزور ہونا۔ الرَّجُلُ: جلدی چلنا اور دوڑنا۔ أَوْعَفَ إِغْفَافًا الرَّجُلُ: جلدی چلنا اور دوڑنا۔ کمزور نگاہ والا ہونا۔ بِقَدْرِ كَفَايَتِ كَمَا كَانُوا يَكْفَانُ۔

الْكَلْبُ: کتے کا پانپنا۔ الْقَطَايِرُ: پرندہ کا جلدی جلدی پر پھڑپھڑانا۔

الْوَعِيقُ: چلنے میں جانور کے پیٹ کی آواز۔ وَوَعْلٌ يُوْعَلُ وَوَعْلًا فِي الشَّيْءِ: داخل ہو کر چھینا جانا اور دور جانا۔ وَوَعْلًا وَوَعْلًا وَوَعْلًا عَلَيَّ عَلَى الْقَوْمِ: بغیر بلائے ہوئے شراب کی مجلس میں آکر پینا۔

أَوْعَلَ إِغْفَالًا فَلَانًا فِي كَذَا: داخل کرنا۔ فِي السَّيْرِ: تیز چلنا۔ فِي الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ: پوری طرح جدوجہد کرنا الْقَوْمِ: دشمن کے ملک میں دور تک گھستے ہوئے چلا جانا۔ (و توعل) فِي الْبِلَادِ: جانا اور دور تک جانا۔

الْوَعْلُ: مہ۔ ست فرومایہ کو تازی کرنے والا بغیر بلائے ہوئے کھانے پینے میں آنے والا۔ جائے پناہ۔ ایک قسم کا دانہ جو کبوتر کھاتے ہیں۔ مچھان درخت ج اَوْعَالٌ) — وَالْوَعْلُ: جھوٹا نسب کا دعویٰ کرنے والا۔ بد خوراک۔

الْوَعَالُ: وصف بیان کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔ گراں فروش۔ الْمَوْعَلُ: جلدی داخل ہونے والا۔ وَوَعْمَةٌ يُوْعَمُ وَوَعْمًا: مغلوب کرنا۔ وَوَعْمٌ بِالْحَبْرِ خَيْرٌ كَوَالِغِهِمْ حَقِيقٌ كَيْفَ بَيَانِ كَرْنَا وَوَعْمٌ إِلَى الشَّيْءِ: خیال جانا۔

وَوَعْمٌ يُوْعَمُ وَوَعْمًا عَلَيْهِ: کینہ رکھنا۔ أَوْعَمَهُ: کینہ اور ممانا۔ تَوَعَّمَهُ عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔ (و تواعم) الْإِبْطَالُ فِي الْحَزَبِ: سخت جنگ کرنا۔ اور بِقَوْلِ بَعْضِ آذَى تَرَجَّحِي نَظَرًا وَوَعْمًا۔

الْوَعْمُ: مہ۔ دل میں بیٹھا ہوا کینہ۔ لڑائی و

مقابلہ۔ نفس۔ بیوقوف۔ کھانے میں سے جو کر جائے جِ اَوْ غَام۔ زَجَلٌ وَغَمٌ۔ کیندر۔

تَوْعَنٌ تَوْعُنًا۔ جنگ میں پیش قدمی کرنا۔ عَلِيُّ الْمَعَاصِي۔ اصرار کرنا۔

الْوَعْنَةُ۔ کشادہ منکان۔

الْوَعِيُّ وَالْوَعِيُّ۔ شور و آواز۔ لِرَائِي۔

وَفَدَّ يَفِدُّ وَفَدَا وَفَدَاوُ وَفَادَةٌ وَفَادَةٌ أَلِي أَوْ عَلِي الْأَمِيرِ۔ قاصدین کرنا۔ صفت و افد۔ جِ وَفَدُوا وَفَدُوا وَفَدُوا وَفَدُوا وَفَدُوا۔

أَوْفَدَ إِفَادًا بَلَدٌ هُوَ — عَلَيْهِ۔ اوپر سے جھانکنا۔ تَوْفَدْتُ الْإِبِلَ أَوْ الظَّيْرَ؛ ایک دوسرے سے آگے نکل جانا۔

تَوَافَدَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ؛ اکٹھے وارد ہونا۔

اسْتَوْفَدَنِي وَقَدَّيْهِ؛ غیر مطمئن بیٹھنا۔ (لغت ہے اسْتَوْفَرُوا فِي) — ہُ؛ وند بھیجنا۔

الْوَفْدُ۔ مہم۔ والہدی جمع۔ وہ لوگ جو اکٹھے کسی شہر میں جائیں۔ وہ لوگ جو کسی مشترکہ غرض کے لیے بادشاہ یا حاکم کے پاس جائیں۔ الوفد: ریت کے ٹیلے کی چوٹی۔ جِ وَفَدُوا أَوْفَادَ۔

الْوَأْفَادُ — فَا — مِنَ الْإِبِلِ وَنَحْوِهَا؛ سب سے آگے رہنے والا۔ رخسارے کا وہ حصہ جو کھانا چباتے وقت ابھر جاتا ہے۔

الْوَفَادُ۔ بہت وند والا۔

وَفَرَّ يَفِرُّ وَفَرَا وَفَرَاةً الْفَرَانُ؛ زیادہ کرنا۔ پورا کرنا — عِرْضُ فُلَانٍ؛ حفاظت کرنا اور گالی نہ دینا۔ کہا جاتا ہے "وَفَرَّئُهُ عِرْضَهُ" جب کہ تم

تعریف کرو اور عیب جوئی نہ کرو — عِظَاءُ ك: رضامندی کے ساتھ واپس کر دینا یا کم سمجھ کر واپس کرنا — الثَّوْبُ؛ کپڑے کو کشادہ قطع کرنا

— وَفَرَا وَفَرَا وَفَرَاةً وَفَرَاةً وَفَرَاةً الْمَالُ أَوْ الْمَتَاعُ؛ مال یا سامان بکھرت ہونا۔

وَفَرَّ تَوَفَّرًا الشَّيْءُ؛ زیادہ کرنا — الْفُلَانُ عِرْضَةٌ؛ حفاظت کرنا۔ گلی نہ دینا — الْمَالُ؛

کی نہ کرنا — حِصَّةٌ مِنَ الْمَالِ؛ باقی رکھنا۔ عَلَيْهِ حَقٌّ؛ پورا حق دینا — الثَّوْبُ؛ کپڑا

کشادہ قطع کرنا — الْفُلَانُ طَعَامَةٌ؛ پوری خوراک دینا — اللَّهُ حَظُّهُ مِنْ كَذَا؛ کمال کرنا۔

أَوْفَرُ فُلَانٌ الشَّيْءَ؛ زیادہ کرنا۔ بدھانا۔ پورا

کرنا۔

تَوَفَّرَ عَلَيَّ كَذَا؛ بہت صرف کرنا — عَلِي صَاحِبِهِ؛ حرمت و عزت کا پاس دلچاظ کرنا۔

تَوَافَرُوا وَتَفَرَّ الشَّيْءُ؛ زیادہ ہونا۔

اسْتَوْفَرُوا الشَّيْءَ؛ پورا کرنا — الْحَقُّ؛ پورا حق لینا۔

الْوَفْرُ۔ مہم۔ تو عمری — مِنَ الْمَالِ أَوْ الْمَتَاعِ بہتات۔ کثرت۔ یا صرف مال و متاع ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کیلئے عام ہے۔ جِ وَفَرُوا۔

الْوَفْرَةُ۔ اہم مرتہ۔ کثرت۔ بہتات۔ کانوں تک لگے ہوئے بال جِ وَفَارَ۔

الزَّاهِرُ۔ فَا۔ علم عروض کی ایک بحر۔

الْوَأْفَرَةُ۔ وافر کاموں۔ ت۔ ربی کی بڑی بچی۔

الْأَوْفَرُ۔ کمال۔ تام۔ مکمل۔

الْوَفْرَاءُ۔ بھرا ہوا۔ مَزَادَةٌ وَفْرَاءُ؛ پوری کھال والا توشہ دان۔ اُذُنٌ وَفْرَاءُ؛ بڑا کان۔ اَرْضٌ وَفْرَاءُ؛ بہت گھاس و نباتات والی زمین۔

قَوْمٌ مَتَوَافِرُونَ۔ بہت لوگ۔

المُؤَفَّرُ۔ مہم۔ المُوَفَّرُ الشَّعْرُ؛ بہت اور لمبے بالوں والا۔ اور کہا جاتا ہے "تَوَكَّفْتُ عَلَى أَحْسَنِ مَوْفَرٍ" میں نے اس کو اچھی حالت میں چھوڑا۔

المُؤَفَّرُ۔ مہم۔ مکمل چیز۔

أَوْفَرُ فَا يُفَارُ؛ جلدی کرنا۔

وَافْرَةٌ۔ جلدی کرنا۔

تَوَفَّرَ لِلْأَمْرِ؛ آمادہ ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "أَخَذَ يَتَوَفَّرُ عَلَيَّ فِرَاشِهِ" وہ بچھوئے پر لوٹنے پوٹنے کا۔ اسْتَوْفَرُوا اسْتِيفَارًا فِي قَدَّيْهِ؛ غیر مطمئن بیٹھنا اور اٹھنے کے لیے تیار ہونا۔

الْوَفْرُ وَالْوَفْرُ۔ جلدی جِ اَوْفَارُ وَفَارَ۔ مَكَانٌ وَفَرًا؛ بلند جگہ۔ کہا جاتا ہے "نَحْنُ عَلِيُّ وَفَرَاوِ وَفَارَاوِ اَوْفَارًا" ہم جلدی میں ہیں یا سفر کیلئے تیار ہیں۔

أَوْفَضَ إِفْضَاً؛ تیز چلنا اور دوڑنا — هُ؛ دھکانا — الْإِبِلِ؛ اونٹوں کو جدا جدا کرنا — لِلرَّجُلِ؛ بیٹھنے کے لیے فرض بچھانا۔

اسْتَوْفَضَ اسْتِيفَاضًا؛ تیز چلنا اور دوڑنا۔

— الْإِبِلِ؛ اونٹوں کا متفرق ہونا — جلدی کرنا۔

دھکانا۔ جلا وطن کرنا۔

الْوَفْضُ وَالْوَفْضُ۔ مہم۔ جلدی جِ اَوْفَاضَ۔ الْوَفْاضُ۔ بچی کے نیچے رکھنے کا چمڑا۔ وہ جگہ جہاں پانی ٹھہر جائے جِ وَفْضَ۔

الْوَفْضَةُ۔ اہم مرتہ۔ ترکش کے مانند چمڑے کا ایک برتن جس کا ٹھلا حصہ ہموار ہوتا ہے، چرواہے کا ٹھیلہ۔ اوپر کے ہونٹ پر مونچھوں کے

درمیان کا ٹھلا جِ وَفَاضَ۔

الْأَوْفَاضُ۔ لوگوں کی مختلف جماعتیں۔

نَاقَةٌ أَوْ نَعَامَةٌ مِيفَاضٌ؛ تیز رفتار اونٹنی یا شتر مرغ۔

الْوَفْعُ۔ بلند عمارت یا بلند جگہ۔ جِ اَوْفَاعَ۔ غَلَامٌ وَفَعٌ جِ وَفَعَانٌ وَوَفَعَةٌ وَوَفَعَةٌ تُوجَوَانُ

لڑکا۔

الْوَفِيعَةُ۔ قلم صاف کرنے کا چھتڑا۔ الْوَفِيعَةُ وَالْوَفِيعَةُ۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری۔

الْوَفِيعَةُ وَالْوَفِيعَةُ وَالْوَفِيعَةُ؛ شیشی کی ڈاٹ۔ وَفِقٌ يَفِيقُ وَفَقًا الْأَمْرُ؛ موافق پانا — الْأَمْرُ؛ موافق ہونا۔

وَفَقَ الْأَمْرُ؛ موافق کرنا — هُ اللَّهُ؛ درست کرنا — هُ اللَّهُ لِلخَيْرِ؛ الہام کرنا — بَيْنَ الْقَوْمِ اِصْلَاحٌ کرنا۔ وَفَقْتُ لَهُ؛ اس نے مجھے پایا

اُس نے مجھ سے ملاقات کی۔

وَالْفَقُّ وَالْفَاقُ وَالْمُؤَافَقَةُ پانا — هُ فِينِ أَوْ عَلِي الشَّيْءِ؛ موافق ہونا — بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ دُجُورٌ

کو جوڑنا۔

أَوْفَقَ الْقَوْمَ لَهُ؛ قریب ہونا اور سب کا متفق ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "أَوْفَقَ لَزَيْدٍ لِقَاءَ نَا" زید

سے ہم لوگوں کی ملاقات اچانک ہو گئی۔

أَوْفَقَ السَّهْمَ وَالسَّهْمَ؛ تیز چلانے کیلئے فوق کو تانت پر رکھنا (دیکھئے لفظ فوق) یہ اَفْوَقُ کا مقلوب ہے اور اصل کا استعمال بہت نادر ہے۔

تَوَفَّقَ؛ کوشش کا ایسا ہونا۔ تَوَفَّقَ پانا۔

تَوَافَّقَ الْقَوْمُ فِي الْأَمْرِ؛ ایک دوسرے کے موافق ہونا۔ ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

اتَّفَقَ الرَّجُلَانِ عَلَيَّ الشَّيْءِ وَفِيهِ؛ اتفاق کرنا۔ قریب ہونا۔ متحد ہونا۔ اتَّفَقَ مَعَهُ؛ موافقت کرنا۔

الْأَمْرُ: واقع ہوتا۔

إِسْتَوْفَى اسْتَيْفَأَ اللَّهُ: اللہ سے توفیق مانگنا۔
الْوَفْق: مہ۔ دو چیزوں کی مطابقت۔ قدر
کفایت۔ کہا جاتا ہے ”كَمْسَبَةِ وَفْقٍ عَيْتَالِهِ“ اس
کی کمائی اس کے اہل و عیال کے لیے کافی ہے کچھ
بچتا نہیں۔ ”وَجَاءَ الْقَوْمُ وَوَفَّقَهُ“ قوم اتفاق کر کے
آئی ”وَأَتَيْتُهُ وَوَفَّقِي ظَلَعَتِ الشَّمْسُ“ میں اس
کے پاس طلوع آفتاب کے وقت آیا۔
التَّوْفِيقُ: مہ۔ توفیق الہیال و توفیقاہ و
تینفاہ و تینفاہ و توفیقاہ و تینفاہ: سنے چاند
کے نکلنے کا وقت۔

الْوَفِيقُ: ہمراہی۔ ساتھی۔

المَوْفِقُ: مہ۔ کہا جاتا ہے ”إِنَّ فَلَانًا مَوْفِقٌ“
فلاں نیک آدمی ہے۔

وَقَلَّ يَنْقَلُ وَفَلَا الشَّيْءُ: چھیلنا۔

وَقَلَّ تَوْفِيلًا الشَّيْءُ: زیادہ کرنا۔ بوجھنا۔ چھیلنا۔

الْوَفْلُ: مہ۔ تھوڑی چیز۔

تَوْفُنَ الشَّيْءِ: کم ہونا۔

الْوَفْتَةُ: کمی۔

وَفَهَيْفَهُ وَفَهَا التَّضْرَائِي: خادم گرجا ہوتا۔

الْوَأْفَةُ: گرجا کا ناظم و گھرانے سرخ۔

الْوَأْفَاعَةُ: گرجا کے ناظم کی تنخواہ۔

الْوَأْفِيَّةُ: گرجا کے ناظم کا رتبہ۔

وَفِي يَفِي وَفَاءً بِالْوَعْدِ وَالْعَهْدِ: پورا کرنا۔

ممانعت کرنا — التَّنْذَرُ: نذر پوری کرنا —

الشَّيْءُ: طویل ہونا اور اسی سے ہے ”مَاتَ

فُلَانٌ وَأَنْتَ يَوْفَاءٌ“ فلاں مر گیا اور تیری عمر

دراز ہو — رَيْشُ الْحِنَاحِ: بازو کے پردوں کا

پورا ہونا (وَفِيًا) الشَّيْءُ: کمال ہونا اور بخت

ہونا — الدُّزْمُ المِثْقَالُ: برابر ہونا۔ ہم وزن

ہونا۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا الشَّيْءُ لَا يَفِي بِذَلِكَ“ یہ

چیز اس کے برابر نہیں ہے۔

وَفِي تَوْفِيَّةِ الزُّجَلِ حَقَّةٌ: پورا حق دینا۔

أَوْفَى الْبِقَاءَ بِالْوَعْدِ: پورا کرنا — التَّنْذَرُ نذر

پوری کرنا — الكَيْلُ: پورا ناپنا — فَلَانًا

حَقَّةً: پورا حق دینا — المَكَانُ: آنا — عَلَى

المَكَانِ: اوپر سے جھانکنا — عَلَى الْمَاءِ: سو

سے زائد ہونا — عَلَى الشَّيْءِ وَفِي الشَّيْءِ:

اوپر سے جھانکنا۔

وَفِي مَوَافَاةً فَلَانًا حَقَّةً: پورا حق دینا —

الزُّجَلُ: آنا۔ اچانک آنا۔ وَأَفَاةُ الْحَمَامِ: او

الکِتَابُ: موت کا آنا یا خط کا آنا۔

تَوَفَى تَوَافِيًا الْقَوْمُ: ساری قوم کا آنا۔

تَوَفَى تَوَفِيًا: راہ ہونا — حَقَّةٌ: پورا حق لینا۔

کہا جاتا ہے ”تَوَفَيْتُ مِنْ فَلَانٍ مَالِي عَلَيَّ“ جو

کچھ میرا حق فلاں پر تھا اس کو میں نے پورا لے لیا

— المَدَّةُ: مدت کو پہنچنا — الشَّيْءُ: کمال بنانا

— عَدَدُ الْقَوْمِ: پورا شمار کرنا۔ تَوْفَاهُ اللَّهُ: موت

دینا۔ تَوَفَى فَلَانٌ: فلاں مر گیا۔ اللہ کو ممتو فی اور

بندے کو ممتو فی کہیں گے۔

إِسْتَوْفَى اسْتَيْفَأَ حَقَّةً: کمال و پورا حق لینا۔

الْوَفَاءُ: مہ۔ کہا جاتا ہے ”مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ“ وہ مر

گیا اور حقوق واجبہ کے پورا کرنے کے لائق مال

چھوڑ گیا ”وَمَاتَ وَأَنْتَ يَوْفَاءٌ“ وہ مر گیا اور تیری

عمر دراز ہو۔

الْوَفِيُّ وَالْمِيفِيُّ وَالْمِيفَاءَةُ: زمین کا بلند حصہ۔

المِيفِيُّ: تھور کاڑھلنا۔ اینٹوں کے پکانے کا آوا۔

الْوَفَاةُ: موت۔ ح وَفِيَاتُ:

الْوَفِيُّ: پورا۔ کمال۔ بہت وفا کرنے والا۔ حق

دینے والا۔ حق لینے والا۔ ح وَفِيَاءُ:

الْوَأْفِيُّ: فا۔ مونس و ائینہ۔ ایک درہم اور چار

دراہق — عِنْدَ الشُّعْرَاءِ: وہ شعر جس کے اجزاء

پورے ہوں۔

المِيفَاءُ: وفا کرنے والا۔

وَقَبَّ يَقْبُ وَفَبَا الزُّجَلُ: متوجہ ہونا۔ آنا۔

گڑھے میں داخل ہونا۔

وَقَبَّتْ وَفَبَا وَقَبَا الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب

ہونا — الظَّلَامُ: تاریکی پھیلنا — القَمَرُ: چاند

کا گن میں آنا — الزُّجَلُ: دھنسی ہوئی آنکھوں

والا ہونا — عَيْتَالُهُ: آنکھوں کا دھنسنے جانا۔

أَوْقَبَ الْبِقَاءَ: بھوکا ہونا — الشَّيْءُ: پتھر کے

گڑھے میں داخل کرنا — التَّغْلُ: درخت خرما

کے پتھوں کا بدبودار ہونا۔

الْوَفْبُ: مہ۔ پتھر کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو

جائے۔ روشن دان۔ جسم کا ہر گڑھا۔ جیسے آنکھ کا ج

وَقُوبٌ وَوَقَابُ: الوَقْبُ: بیوقوف۔ کینہ ج

أَوْقَابُ: الأَوْقَابُ: گھر کا سامان۔

الْوَقْبَانُ: بیوقوف۔ ح وَفِي:

الْوَقْبَةُ: پتھری چٹان یا جسم میں گڑھا۔ بیاروشن

دان جس میں سایہ ہو۔ شہد وغیرہ جو بچکے۔

رَكْبَةٌ وَفَاءُ: گہرے پانی کا تھوڑا۔

العِقْبَةُ: اوجھ کا وہ حصہ جو برت پر ت ہوتا ہے۔

الْوَقْبِيُّ: بیوقوفوں کی صحبت کا حریص۔

المِيفَبُ: کوڑی۔

المِيفَابُ: بہت شراب پینے والا۔ اور کہا جاتا

ہے ”أَنْتُمْ يَمِينُونَ سَبِيْرُ المِيفَابِ“ وہ لوگ

دن رات لگاتار سفر کرتے ہیں۔

وَقَّتْ يَقْتُ وَفَتَا الْأَمْرُ: وقت مقرر کرنا۔

وَقَّتْ الْأَمْرُ: وقت مقرر کرنا۔ کام کی مدت

بیان کرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”وَقَّتْ الْأَمْرُ لِيَوْمِ

كَذَا“ اس نے کام فلاں دن کے لیے مقرر کیا۔

الْوَقْتُ: مہ۔ زمانہ کی مقدار ج اَوْقَاتُ

أَوْقَاتُ السَّنَةِ: سال کی فصلیں۔ وَقَّتْ

مَوْقُوتٌ وَمَوْقُتٌ: مقرر کردہ وقت۔

المَوْقِلُ: تعیین۔ تعیین کا زمانہ۔ تعیین کی

جگہ۔

المِيفَاتُ: وقت۔ وعدہ جس کے لیے وقت

مقرر کیا گیا ہو۔ اور کبھی اس مقام کیلئے بھی استعارہ

کیا جاتا ہے جس میں اجتماع کے لیے وقت مقرر

کیا گیا ہو۔ ح مَوْاقِفُ:

المَوْقِفُ: اوقات اور چاند کا اندازہ رکھنے والا۔

وَقِحَ يَقِحُ قِحَةً وَقِحَةً وَوَقِحَ يَوْقِحُ وَقِحًا

وَقِحَ يَوْقِحُ وَقِحَةً وَوَقِحَةً: بے حیاء ہونا۔ بے

شرم ہونا۔ قِحُ اغْفَالٍ: بے حیاء ہونا۔ صفت وَقِحَ

— حَافِزُ الدَّائِبَةِ: چوپایہ کے کھر کا سخت ہونا۔

وَقِحَ الحَوْضُ: حوض کو مٹی اور پتھر سے

درست کرنا — حَافِزُ الدَّائِبَةِ: بچھل ہوئی چربی

لگا کر چوپایہ کے کھر کو سخت کرنا۔

أَوْقِحَ وَاسْتَوْقِحَ الحَافِزُ: کھر کا سخت ہونا۔

تَوَاقِحُ: بے حیائی ظاہر کرنا۔

الْوَقَاحُ (مذکر و مؤنث) بے شرم ج وَقِحَ

وَوَقِحَ حَافِزُ وَقَاحٌ: سخت کھر۔

زَجَلٌ وَفَيْخٌ وَوَجُو: بے شرم مرد۔

المَوْقِعُ: مہ۔ جلائے مصائب۔ بِيَوْمِ مَوْقِعٍ:

کام کی وجہ سے تھا ہوا اونٹ۔

وَقَدَّ يَقْدُ وَقَدَّوْا وَقَدَّوْا وَقَدَّانَا
قَدَّةً وَانْقَدَّ. روشن ہونا — النَّازُ: آگ جلنا۔
بھڑکانا۔ مشتعل ہونا۔ کہا جاتا ہے ”وَقَدَّتْ بَلَدٌ
زَنَادَى“ تیری وجہ سے میری جہنمات نے آگ
دی۔ یعنی تیری وجہ سے میری کامیابی ہوئی۔ وَقَدَّ
وَأَوْقَدُوا تَوْقِدُوا اسْتَوْقَدُوا النَّازُ: آگ بھڑکانا۔
مشتعل کرنا۔ تَوْقَدْتَ النَّازُ اسْتَوْقَدْتَ آگ
بھڑکانا۔ تَوْقَدُ الْكَوْكَبُ: ستارہ کا روشن ہونا۔
چمکانا۔ کہا جاتا ہے اَبْعَدَ اللَّهُ ذَاوَهُ وَأَوْقَدْنَا
أَنزَلَهُ اللَّهُ اس کے گھر کو دور کر دے اور آگ میں
اس کے اثر کو جلا دے یعنی اس کو دبا دے نہ کرے۔
الْوَقْدِيُّ الْوَقْدَمُ: آگ۔

الْوَقْدَةُ: وَقَدَّ كَالْأَسْمِ مَرَّةً. سخت گرمی کا زمانہ کہ
دس دن یا نصف مہینہ ہے۔
الْقَيْدَةُ: مہ۔ جس کی تم پیروی کر۔ اس معنی کے
لحاظ سے اس کی اصل قَدْوُ ہے تاوآء کے بدلہ میں
ہے۔

الْوَقَادُ وَالْوَقِيدُ وَالْوَقُودُ: ایندھن جس سے
آگ سلگائی جائے۔

الْوَقَادُ: اسم مبالغہ۔ كَوَكَبَتْ وَقَادًا: بہت
روشن ستارہ۔ زَجَلٌ وَقَادًا: تیز طبع روشن خاطر
مرد۔

الْمَوْقِدُ مَوَاقِدُ الْمُسْتَوْقِدِ: چولہا۔ زَنْدٌ
مِيقَادٌ: جلدی روشن ہونے والا ہتھیار؛

الْمُسْتَوْقِدَةُ: روشن۔ تیز طبع۔

وَقَدَّةٌ يَقْدَةُ وَقَدًا: بچھاڑنا۔ مملکت ضرب لگانا۔
صفت مفعلی وَفَيْدٌ وَمَوْقُودٌ — هُ الثَّعَالُ:
غلیبہ نیند کی وجہ سے متوالا ہونا (— وَأَوْقَدُ)
فَلَانًا: بیمار چھوڑنا۔

الْوَقِيدُ: مملکت بیماری میں جلا۔ جو جھلست۔
وَقَيْدُ الْجَوَانِحِ: غمگین دل والا۔ مَوْنٌ وَقَيْدَةٌ
ج وَقَائِدُ الْوَقَائِدِ: بچھے ہوئے پتھر۔
الْمَوْقِدُ: بدن کے اطراف۔ جیسے نخرہ۔ گھٹنا۔
کندھا۔ ج مَوَاقِدِ۔

وَقَرَّ يَقْرُ وَقَرًّا الْعَظْمُ: ہڈی کا پھاڑنا۔ وَقَرَّ
الْعَظْمُ: ہڈی کا پھٹنا۔ صفت مفعلی مَوْقُورٌ
وَقَيْرٌ (— قِرَّةٌ وَقَارَةٌ وَقَرَاوٌ وَقَرِيضٌ وَقَرٌّ

قَارَةٌ وَقَارًا) الرَّجُلُ: سنجیدہ و صاحب وقار ہونا۔
ثابت رہنا۔ وَقَرَّ يَقْرُ وَقَرًّا وَفُورَةٌ فِي بَيْتِهِ: وقار
کے ساتھ بیٹھنا۔ وَقَرَّتْ تَقْرُو وَقَرَّتْ تَقْرُو
و وَقَرَّتْ أَذُنُهُ: بو جھل ہونا یا بہرا ہونا۔ صفت
مَوْفُورَةٌ۔

وَقَرَّ الشَّيْخُ: تعظیم کرنا — فَلَانًا: زخمی کرنا
— الدَّابَّةُ: آرام دینا — لِلشَّيْءِ: نشان بنانا۔ کہا
جاتا ہے ”وَقَرَّتْ نَفْسُ الْإِسْفَارِ“ سفر نے مجھ کو مشتاق
بنادیا۔

أَوْقَرُ إِيقَارًا وَفِرَّةٌ (شازن) الدَّابَّةُ: چوپایہ پر بھاری
بو جھ لادنا۔ أَوْقَرَتْ التَّخْلَةَ: أَوْقَرَتْ سِتَّ جھل
دار ہونا۔ صفت مَوْقِرٌ وَمَوْقِرَةٌ وَمَوْقِرَةُ الدَّيْنِ
فَلَانًا: قرض کا گرانہ کرنا۔

تَوَقَّرُوا اتَّقَوْا: باوقار ہونا۔ بردبار ہونا۔

اسْتَوْقَرْتُ اسْتَيْقَارًا الْإِبِلَ: اونٹ کا موٹا
ہونا۔ بھاری بو جھ اٹھانا۔ اسْتَوْقَرْتُ وَقْرَهُ طَعَامًا:
بو جھ بھر کھانا لینا۔

الْوَقْرُ: مہ۔ پھڑکی کا شگاف۔ پتھریا ہڈی وغیرہ میں
گڑھایا شگاف۔ ج وَقْرٌ وَقْرٌ: کہا جاتا ہے ”فِي ضِدِّهِ
وَقْرٌ“ اس کے دل میں کہینہ ہے۔

الْوَقْرُ: بھاری بو جھ۔ پانی سے بو جھل بادل ج
أَوْقَارٌ۔

الْوَقْرَةُ: اسم مرہ۔ پتھریا ہڈی کا گڑھایا شگاف۔
وَقْرَةُ الدَّهْرِ: زمانہ کی سختی ج وَقْرَاتُ الْوَقْرَاتِ:
نشانیوں۔

الْقِرَّةُ: مہ۔ بو جھ۔ بکریوں کا ریوڑ۔ اہل دعیال۔
بہت بوڑھا۔ بیماری کا وقت۔ ج قِرَاتٌ۔

الْوَقْرِيُّ: بکری۔ بھیروں کا چرواہا۔ یا ان کا جمع
کرنے والا۔ گدھوں کا مالک۔

الْوَقَارُ: سنجیدگی۔ بردباری۔ عظمت (—
وَالْوَقْرُ مِنَ الرَّجَالِ: سنجیدہ و صاحب وقار مرد۔
الْوَقُورُ (مذکورہ مَوْنٌ) صاحب وقار۔ ج وَقْرٌ۔

الْوَقِيضُ: بچی ہوئی ہڈی۔ بھیروں کا ریوڑ۔ لوگوں
کی جماعت۔ ذیل بے عزت (— وَالْوَقْرَةُ: پتھر
کی چٹان کا بڑا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے اَذُنٌ
وَقِيضَةٌ: بہرا کان یا بو جھل کان۔

الْمَوْقِرُ: مہ۔ تجربہ کار۔ عمل مند جس کو زمانہ
نے تجربہ کار بنا دیا ہو۔

الْمَوْقِرُ: پہاڑ کے پہلو میں نرم جگہ۔

الْمِيقَارُ مِنَ التَّخْلِ: بہت پھل دار ج
مَوَاقِيرٌ۔

وَقَسَّ يَقْسُ وَقَسًّا الْعَجُزُ فِي بَدَنِهِ: کھجلی
پھیلنا — الفَاحِشَةُ: بری بات کا ذکر کرنا — هُ
بِالْمَكْتُورَةِ: سمت لگانا — الْعِجْلُ: کھال

پھیلنا۔ وَقَسَّ الْإِبِلَ: کھجلی لگانا۔

الْأَوْقَاسُ: مختلف لوگوں کی جماعت۔

وَقَسَّ يَقْسُ وَقَسًّا الرَّسْمُ: نشان کا مٹنا —

مِنْ فُلَانٍ: عملیہ پانا (— وَأَوْقَسَ لَهُ يَسْتِئْذِنُ) کچھ
تھوڑا سارنا۔

تَوَقَّسَ: ہلنا۔

الْوَقْسُ وَالْوَقْسَةُ وَالْوَقْسَةُ: آواز۔ حرکت۔

الْوَقْسُ: عیب۔

الْوَقْسُ وَالْوَقْسُ: آگ سلگانے کیلئے چھوٹی

چھوٹی لکڑیاں۔

الْأَوْقَاسُ: مختلف قسم کے لوگوں کا گروہ۔

وَقَصَّ يَقْصُ وَقَصًّا عَثَقَهُ: گردن توڑ دینا

وَقَصَّتِ الْعُنُقُ: گردن کا ٹوٹ جانا — یہ

الدَّابَّةُ: اگر گردن توڑنا۔ وَقَصَّ الشَّيْءُ: عیب

لگانا۔ گھٹانا — رَأْسُهُ: بیچے سے دینا۔

وَقِصَّ الرَّجُلُ: ٹوٹی ہوئی گردن والا ہونا۔

صفت مَوْقُوسٌ۔

وَقِصَّ يَوْقِصُ وَقِصًّا عَثَقَهُ: گردن توڑ دینا — عَلَى النَّارِ:
چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالنا۔

أَوْقِصَهُ: اَوْقِصْ بِنَانًا (دیکھئے اَوْقِصْ)

تَوَقَّصَ النَّبِيُّ: اونٹ کا چلنے میں زور سے

قدم ڈالنا۔

تَوَاقَصَ: کوتاہ گردن کی مشابہت کرنا۔

الْوَقِصُ: مہ۔ عیب — فِي الْعَرُوضِ: علم

عروض کی اصطلاح میں حرف عالی متحرک کا گرا

دینا جو حرف کی ایک قسم ہے۔

الْوَقِصُ: مہ۔ آگ سلگانے کی چھوٹی چھوٹی

لکڑیاں ج اَوْ قَاصٍ۔ کہا جاتا ہے "اَنَا اَوْ قَاصٍ" من بینِ فُلَانٍ "ہمارے پاس ہونے کے قبائل کے کچھ لوگ آئے۔"

الْوَقَاصُ۔ پرندوں کے شکار کا جال۔ ج وَقَاصِصٌ۔ کہا جاتا ہے "خُذْنَا وَقَاصِصَ الظُّرَبَقِیْنِ" دو راستوں میں سے قریب کا راستہ اختیار کرو۔

الْوَقِیصَةُ۔ گردن کی بڑ کی ہڈی کا سرا۔ ج وَقَاصِصٌ۔

المَوْقُوصُ۔ مہم۔ فی العزوض: اصطلاح شعراء میں وہ وزن جس میں حرف ثانی متحرک گرا دیا گیا ہو۔

وَقَفَّةٌ یَقْفَلُہُ وَقَفَاً یَجْهَازُہَا۔ مار کر کے ست کر دینا۔ وَقَفٌ فِی زَابِحِہ: بوجہ محسوس کرنا۔ کہا جاتا ہے "اَكَلْتُ ظَعَامًا وَقَفِیْنِ" میں نے کھانا کھایا اور اس نے مجھ سے متنا دیا اور سلادیا۔

وَقَفَّ الصَّخْرُ: چٹان کا ٹڑھے والا ہونا۔

اِسْتَوْقَفَ اِسْتِیْقَاطًا الْمَكَانَ: لوگوں یا جانوروں کے رونے کی وجہ سے گڑھے والی ہونا۔

الْوَقُوطُ وَالْوَقِیظَةُ: گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے ج اَوْ قَاطٌ۔

الْوَقِیظُ: گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے ج وَقَاطٌ وَّوَقِیظَانٌ وَقَاطٌ۔ ماریا مرض یا عظم سیری کی وجہ سے ست۔ بے خوابی کی وجہ سے کسل مند ج وَقَطِیٌّ وَّوَقَاطِیٌّ مَوْنُثٌ وَقِیظٌ (مذکر کی مانند)

وَقَفَّةٌ یَقْفَلُہُ وَقَفَاً۔ مسلک ضرب مارنا۔ وَقَفَّ عَلَی الْأَمْرِ: بھٹکی کرنا۔

الْوَقِیظُ: وہ شخص جو اٹھنے پر قادر نہ ہو۔

وَقَعَ یَقَعُ وَقُوعًا الشَّیْءُ مِنْ یَدَیْهِ: گمرا۔ الْحَقُّ: ثابت ہونا۔ الْقَوْلُ عَلَیْہِم: واجب ہونا۔ الْاِبِلُ: اونٹ کا بیٹھا۔ الذَّوَابُ:

جانوروں کا بیٹھا۔ زَبِیغٌ بِالْاَرْضِ: موسم خریف میں پہلی بار بارش ہونا اور اس کے لیے

سَقَطٌ کَالْقَطْرِ نِیْسٌ یُؤَلَّجُہَا۔ الطَّیْرُ عَلَی شَجَرٍ اَوْ اَرْضٍ: پرندہ کا درخت یا زمین پر اترنا۔ صَفَتْ وَقُوعٌ وَقُوعٌ: فی الشَّوْکِ: جال میں

پھنسا۔ فِی اَرْضٍ فَلَاقَہُ: داخل ہونا۔ الْوَجَلُ لِمَنْ عَمِلَہُ: کام میں نرمی اختیار کرنا۔

فِی الْعَمَلِ شُرُوعٌ کرنا۔ الْکَلَامُ فِی نَفْسِہُ: اثر کرنا۔ الْأَمْرُ: حاصل ہونا۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَ لَمَوْاقِعَ" اس کو ایک حادثہ پیش آیا۔ وَفُوعًا وَوَقِیظَةً: فِی فُلَانٍ: گالی دینا۔ عیب نکالنا۔ غیبت

کرنا۔ (وَقَعًا) اِلَی کَذَا: جلدی جانا۔ مِنْ کَذَا وَعَنْ کَذَا: بازار ہنا۔ الْکُفْلُ: التَّضَلُّ بِالْمِیْقَعَةِ: تیز کرنا۔ صفت مفعولی وَقِیظٌ۔

الْبَحِیْرُ: دونوں راتوں کے کناروں پر گول داغ لگانا۔ (وَقَعًا وَقَفَّةً) بِالْعَدُوِّ: دشمن کے مقابلہ میں مبالغہ کرنا اور کہا جاتا ہے "وَقَعَ عِنْدَ فُلَانٍ مَوْقَعًا حَسَنًا" اس نے فلاں کے نزدیک حصہ اور

مرتبہ پایا۔ "وَقَعَ الْأَمْرُ مِنْہُ مَوْقَعًا حَسَنًا" اَوْ سَیِّئًا" اس سے کام اچھے یا برے موقع میں واقع ہوا۔ "وَفُلَانٌ لَیْسَ یَقَعُ" فلاں کام کے

قریب ہوتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ وَهَذِهِ تَعْلَلٌ لَا تَقَعُ عَلَی رِجْلِی" یہ جو تا میرے پیر کے مناسب

نہیں۔ وَقَعَ فِی یَدِہ: نام دہشیاں ہونا (مانند سَقَطَ فِی یَدِہ کے)

وَقَعَ یُقَعُ وَقَعًا: ننگے پیر ہونا۔ سخت زمین یا پتھروں کی وجہ سے قدم کا درد مند ہونا۔ صفت وَقِعٌ۔

وَقَعَ الْوَبْرُ ظَهَرَ الْبَحِیْرُ: نشان ڈالنا۔ الْمَطْرُ الْأَرْضُ: کہیں کہیں اگانا۔ الْعَهْدَاوُ الْفَرَمَانُ: شاہی مہر لگانا۔ الْکِتَابُ اَوْ الصِّكُّ: خط یا چیک پر دستخط کرنا۔ الْکِتَابُ فِی الْکِتَابِ: اَوْنْتُ الْکِتَابِ زَوَادٌ کَوْضَفٌ کرنا۔ الْاِبِلُ: اونٹ کا بیٹھا۔ وَقَعَ ظَنُّہُ عَلَی الشَّیْءِ: اندازہ کرنا۔

عَلَى فُلَانٍ: گمان کرنا۔ الصَّیْقَلُ عَلَی الشَّیْفِ تیز کرنے کے لیے متوجہ ہونا۔

الْحِجَازَةُ حَافِیْرَةٌ: کھر کے سرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ الْفَرْمُومُ: آخر رات میں آرام لینے کے لیے اترنا۔

وَأَقَعَهُ وَقَعًا وَهُوَ أَقَعَةٌ: جگ کرنا۔ وَأَقَعَ الْأَمْرُ: امور کے قریب ہونا اور ان کو سر انجام

دینا۔

أَوْقَعَهُ اِیْقَاعًا: واقع کرنا۔ اَوْقَعُ بِالْعَدُوِّ: دشمن کے مقابلہ میں مبالغہ کرنا۔ یہ الشَّوْکُ: ہڈی میں پھنسانا۔ اللُّهُؤُوبُ: زمانہ کا سختیاں ڈالنا۔ الرَّؤُوسَةُ: پانی روک لینا۔ الْمَغْنِیُّ: شرم ٹھیک کرنا۔

تَوَقَّعُ الْأَمْرُ: حاصل ہونے کی امید لگانا۔ تَوَاقِعُ الْأَعْدَاءِ: دشمنوں کا باہم جنگ کرنا۔ ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِسْتَوْقَعُ الْأَمْرُ: حاصل ہونے کی امید رکھنا۔ خَوْفٌ کَمَاثٌ۔ الشَّیْفُ: تلوار کا تیز کرنے کا قابل ہونا۔

الْوَقِیظُ: مہم۔ کسی چیز کی ضرب کی آواز۔ تم کہتے ہو "نَسِمَعَتْ وَقَعَ حَافِیْرَ الدَّابَّةِ وَقَعَ الْمَطْرُ" میں نے چوپایہ کے کھر کی اور بارش کی آواز سنی۔ پہاڑ کی بلند جگہ۔ بارش کی امید دلانے والے بارل۔ چھوٹی ٹکڑیاں واحد وَقَفَّةٌ۔ کہا جاتا ہے "اِفْلَانٌ وَقَعٌ عِنْدَ الْاَبِیْرِ" امیر کے نزدیک فلاں کی قدر و منزلت ہے۔

الْوَقِیظُ: مہم۔ چھوٹی ٹکڑیاں واحد وَقَفَّةٌ۔ الْوَقِیظُ: بارش کی امید دلانے والا بادل۔ الْوَقِیظَةُ: وقع کا اسم مرہ۔ لڑائی کی دھکا پھیل۔

آخری رات کی نیند۔ دن میں ایک بار کی قضاء حاجت۔ وَقَعَ الظَّالِمُ سے اسم جب کہ وہ اڑتے اڑتے نیچے اترے۔ وَقَفَّةُ الشَّیْفِ: تلوار کا پڑنا۔ ج وَقِیظَاتٌ۔ الْوَقِیظَةُ: وقع کا اسم نوع۔

تَوَاقِیظُ: مہم۔ کسی چیز کا وہم و گمان کرنا۔ آخر رات میں اترنا۔ کتاب سے فراغت کے بعد ضمیمہ لگانا۔ تَوَاقِیظُ السُّلْطَانِ: شاہی مہر۔ ج تَوَاقِیظُ۔ الْاِیْقَاعُ: مہم۔ سروں کی موزونیت۔ الْوَاقِعُ: نا۔ ظَائِرٌ وَاقِعٌ: درخت پر یا گھونٹے میں رہنے والا پرندہ ج وَقِعٌ وَوَقُوعٌ کہا جاتا ہے وَجَلُّ وَاقِعٌ الظَّنُّ: نرم طبیعت مرد۔ التَّنْشُرُ الْوَاقِعُ: نباتات التنش کے قریب ایک ستارہ۔ الْوَاقِیظَةُ: واقع کا مؤنث۔ لڑائی کی دھکا پھیل۔ مصائب زمانہ میں سے ایک مصیبت۔ قِیَامَتُ رَجُلٍ وَاقِیظَةً: ہمارے مرد۔

وَقَاع - بروزن قطام۔ دونوں راتوں کے کناروں پر گول داغ۔
الْوَقَاعَةُ - زمین کی سختی جس کی وجہ سے پانی جذب نہ ہو سکے۔

وَقَاعَةُ التَّبَسُّرِ - پردہ لگانے میں زمین پر پڑنے کی جگہ۔
الْوَقِيعُ - تیز کیا ہوا پھل۔ پتھروں سے رگڑ کھایا ہوا کھڑ۔ سخت جگہ جو پانی کو جذب نہ کرے ج وَقِيعٌ۔

الْوَقِيعَةُ - لڑائی اور متنازعہ کا تصادم۔ لوگوں کی غیبت۔ گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے ج وَقِيعٌ وَقِيعٌ وَقِيعَةُ الظَّائِرِ - وہ جگہ جہاں پردہ کے اترنے کی عادت ہو۔ وَقِيعَةُ الْعَرَبِ - عرب کی لڑائیاں۔

الْوَقَاعُ وَالْوَقَاعَةُ - لوگوں کی غیبت کرنے والا۔

المَوْقِعُ - کرنے کی جگہ ج مَوَاقِعُ - مَوَاقِعُ الْقَطْرِ - بارش ہونے کی جگہ۔ مَوَاقِعُ الْقِتَالِ - جنگ کی جگہ۔

مَوْقِعَةُ الظَّائِرِ - پردے کے اترنے کی جگہ ج مَوَاقِعُ۔

المَيْقِيعَةُ - ہتھوڑا۔ دھوبی کا تختہ جس پر کپڑے دھوتا ہے۔ چھری وغیرہ پر سان رکھنے کا لمبا پتھر۔ مَيْقِيعَةُ الظَّائِرِ - پردے کے اترنے کی جگہ اور اس کی اہمیت کی جگہ ج مَوَاقِعُ۔

المَوْقِعُ - فا۔ آہستہ قدم رکھنے والا۔ مہر شاہی کا محافظ۔ شاہی فرمان لکھنے والا۔

المَوْقِعُ - مضم۔ مصائب زدہ۔ رہ چلا راستہ۔ تیز کی ہوئی چھری۔

المَوْقِيعُ - مضم۔ پتھروں سے رگڑ کھا کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا۔ قَدَمٌ مَوْقِيعَةٌ - سخت قدم۔

وَقْفٌ يَقِفُ وَقْفًا وَقْفًا مَحْرَبًا - چپ چاپ کھڑا ہونا۔ فی الْمَسْأَلَةِ - شک کرنا القَارِئِ عَلَيَّ الْكَلِمَةَ - وقت پڑھنا۔ کلمہ کے آخری

حرف کو ساکن پڑھنا۔ وَقْفٌ عَلَيَّ الْأَمْرُ - سمجھنا۔ مَطْلَعٌ هُوَ (أ) وَقْفًا الدَّابَّةُ - ٹھہرانا کھڑا کرنا۔

هُوَ عَنِ الشَّيْءِ، مَعَ كَرْنَا - الدَّارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقْفٌ كَرْنًا - کہا جاتا ہے "وَقْفَهَا الْمُرُ عَلَيْهِ"

اس نے اس کو اس کے لیے وقف کیا "وَقْفُ الْأَمْرِ عَلَيَّ حُضُورٌ فَلَا يَ" اس نے معاملہ کو فلاں کی موجودگی پر ملتوی کیا۔ هُ عَلَيَّ الدُّنْبِ خِرَدَارٌ كَرْنَا - القَادِرُ بِالْمَيْقِيعِ: ہانڈی کے جوش کو ڈوٹی سے کم کرنا۔ عَلَيْهِ: معائنہ کرنا) - وَقِيفِي التَّصَوُّاتِ: گر جاکی خدمت کرنا۔ وَقَفُّهُ: کھڑا کرنا۔ التَّوَسُّ: ڈھال کے گرد اگر دلوہے وغیرہ کا حلقہ بنانا۔ المَرْأَةُ عَمْرَتٌ كَوْنُكُنْ پسنانا۔ السَّنَجُ: زین کی اس طرح مرمت کرنا کہ پیٹھ کو خمی نہ کرے۔

الْحَدِيثُ: بیان کرنا۔ القَارِئُ: وقف کے مواقع بنانا۔ العَيْشُ: ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا ہونا۔ وَقَفْتُ المَرْأَةَ يَدِيهَا بِالْحِجَاءِ عَمْرَتٌ كَمَا تَحْتَمِلُ كَوْنُكُنْ دَارٌ تَكْنًا وَقَفْتُ الدَّابَّةَ: ٹھہرانا۔ کھڑا کرنا۔ فَلَا تَأْخُذْ بِدُنْبِهِ: خبردار کرنا۔

وَأَقْفَةُ مَوْاقِفَةٍ وَ وَقَافًا فِي الْحَزْبِ أَوْ الْأَخْصُومَةِ: ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہونا۔ هُ عَلَيَّ كَذَا: ثابت قدم رہنے کو کہنا۔

أَوْقَفَهُ: کھڑا کرنا۔ أَوْقَفَ الدَّارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: وقف کرنا۔ العَجَارِيَةُ: لڑکی کو کھنکھن پسنانا۔ عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا اور چھوڑ دینا۔

تَوَقَّفَ فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا۔ عَلَيَّ الْأَمْرِ: قائم دوام رہنا۔ عَنِ كَذَا: برکنا۔ باز رہنا۔

تَوَاقَفَ الْقَوْمُ فِي الْحَزْبِ: ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہونا۔ اسْتَوْقَفَهُ: کھڑا ہونے کو کہنا۔

الْوَقْفُ - مہ۔ کلمہ کو ما بعد سے قطع کرنا۔ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرُوضِ: ساتویں متحرک حرف کو ساکن کرنا جیسے مَفْعُولَاتٌ کی تاکو ساکن کرنا۔ الْوَقْفُ

کھنکھن یا ہاتھی دانت کا کھنکھن۔ مِنَ التَّوَسُّ: سینک یا لوہے کی بنی ہوئی ڈھال کے گرد کا حلقہ وَالْوَقْفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: کسی چیز کی منفعت کو اللہ کے راستہ میں تصدق کرنا۔ اور اصل کو اپنی بلک میں یا اللہ کی بلک میں رکھنا۔ موقوف چیز کو بھی

وقف کہتے ہیں۔ ج أَوْقَافٌ وَوَقُوفٌ۔

الْوَقْفَةُ - اسم مرؤ۔ شک۔ مِنَ التَّوَسُّ: ڈھال کے گرد کا حلقہ جو لوہے یا سینک کا بنا ہوا ہو۔

الْوَقِيفَةُ: بھگایا ہوا شکار جو تھک کر ٹھہر جائے۔ ہر

وہ مقام جہاں کتے اپنے مالکوں کو روک دیں۔ التَّوَقِيفُ - مہ۔ جوئے کے تیر کا نشان۔ کھنکھن کی جگہ کی سفیدی۔ جانوروں کی ٹانگوں میں کالی دھاری یا کھنکھن کے اندر دھاری۔

الْوَأْقِفُ - فا۔ ج وَقْفٌ وَوَقُوفٌ - عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: فی سَبِيلِ اللَّهِ وقف کرنے والا۔

الْوَقَافُ - دیر و سستی کرنے والا۔ لڑائی سے رکنے والا۔

الْوَقَافَةُ - خوفزدہ جو ٹھہر جائے اور پیش قدمی نہ کرے۔

المَوْقِفُ وَالْمَوْقِيفَةُ - ٹھہرنے کی جگہ۔ مَوْقِفُ المَرْأَةِ الْمُتَحَجِّجَةِ: پردہ نشین عورت کے ہاتھ اور آنکھیں اور وہ اعضاء جن کا ظاہر کرنا ضروری ہو۔ المَوْقِفَانُ: دو رگوں کا نام ہے جو دہر کی ہڈی کے ارد گرد ہوتی ہیں اگر ان میں شیخ ہو جائے تو انسان اٹھنے پر قادر نہیں ہوتا اور اگر کال دی جائیں تو مر جاتا ہے۔

المَوْقِفُ - مضم۔ مِنَ الدَّوَابِّ: دونوں دست پر گول داغ کیا ہوا۔ ضَمْعٌ مَوْقِفٌ - تھکن جس پر اس بندش کا اثر ہو جو اس لیے باندھ دیا

جاتا ہے تاکہ بچہ دودھ نہ پئے۔ وَجَلٌ مَوْقِفٌ آزموہ کار مرد۔ وَجَلٌ مَوْقِفٌ عَلَيَّ الْحَقِّ:

حق کا فرما بیروار مرد۔ ذَابَةٌ مَوْقِفَةٌ: کالی دھاری کی ٹانگوں والا چوپایہ۔

المَيْقِيفُ وَالْمَيْقِيفُ لَكَرِي جَسٌ سَهَانِي كَو بِلَا سَتِ هِيں اور ابال کو کم کرتے ہیں۔ ذُوئِي۔

المَوْقُوفُ - مضم۔ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: وقف۔ وَقَلٌ يَقِلُّ وَقَلًا: ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا)۔

وَتَوَقَّلَ فِي الْحَبْلِ: ہٹاڑ پڑھنا۔ الوَقْلُ - مہ۔ گوگل کا رخسٹ یا اس کا پھل واحد وَقْلَةٌ ج أَوْقَالٌ - کہا جاتا ہے "وَجَلٌ وَقْلَةٌ الرَّاسُ" بہت چھوٹے سر کا مرد۔

الْوَقْلَةُ - گوگل کے پھل کی تحصیل ج وَقُولٌ۔ الوَقْلُ - پتھر۔ شاخوں کی جڑیں جو اچھی طرح نہ

کالی گئی ہوں اور چڑھنے والا آسانی سے پیر رکھ کر چڑھ سکے (- وَالْوَقْلُ وَالْوَقْلُ مِنَ الْخَيْلِ چڑھنے والا گھوڑا۔

فَوْسٌ تَوْقَلَةٌ - اچھی طرح سے ہٹاڑ پڑھنے

والاکھوڑا۔

وَقَمَّ يَقِمُّ وَقَمًّا الدَّابَّةُ: جانور کا گام کھینچنا۔
— الْقِدْرُ: بانڈی کے اُبال کو کھنڈا کرنا۔

(— وَأَوْقَمَ وَقَمَ) الرَّجُلُ: مغلوب کرنا اور بڑے طریقے سے حاجت سے ہٹانا۔

وَقَمَّتِ الْأَرْضُ: گھاس کا کھلایا جانا اور روندنا جانا۔

تَوَقَّمُ الرَّجُلُ: دھمکانا۔ تَوَقَّمُ الشَّيْءَ: تصدقاً کرنا — الضَّيْدُ: شکار کو مار ڈالنا — الْكَلَامُ

یا دکرنا — فَيْهَ: طول کرنا۔

الْوَقَامُ: کوڑا۔ تلواریں۔ لاشیٰ۔ رسی۔

الْمَوْقُومُ: مہم۔ غمگین۔ حاجت سے ہٹایا ہوا۔

أَوْقَنَ إِبْقَانًا وَتَوَقَّنَ: گھونسلے سے شکار کرنا۔

تَوَقَّنَ الرَّجُلُ فِي النَّجْلِ: پہاڑی بکرے کا پہاڑ چڑھنا۔

الْوُقُوفَةُ وَالْأُقُوفَةُ: گھوسلا۔ آشیانہ۔ ج و فونات و اُنقَات۔

الْمَوْقُوفَةُ مِنَ الْحَوَارِي: پردہ نشین۔

وَقَهَ وَوَقِهَ يَقِيهِ وَأَيْقَهُ وَأَيْقَهُهُ وَاسْتَيْقَفَهُ

لِقُلَّانٍ: اطاعت کرنا۔ اَيْقَهُ عَتَهُ: باز رہنا۔

الْوُقُوفَةُ: اطاعت۔ فرمانبرداری۔

الْوَأَقَةُ: گر جا کا منتظم۔ اور بعضوں کے نزدیک

وَأَقَهُ بِالْبَأْقَاءِ: —

وَفُوقَ الْكُنْبِ: کتے کا بھونکنا — الظَّالِمُ:

پرندہ کا چھپانا — الرَّجُلُ: کمزور ہونا۔

الْوُفُوقُ: ایک قسم کا پرندہ جو اپنے انڈے خود

نہیں بیٹا بلکہ دوسرے پرندوں کے گھونسلے میں

رکھ دیتا ہے اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔

الْوُفُوقُ بَرْدَلُ:

الْوُفُوقَةُ مِنَ الرَّجَالِ: بکواس کرنے والا اور

ایسا ہی اَمْرٌ أَوْ فَوَاقَةٌ:

وَقَى يَبْقِي وَقِيَةً وَوَقِيًا وَوَقِيَةً وَوَقَى

فَلَانًا: حفاظت کرنا۔ تکلیف سے بچانا۔ تم سے ہو

”وَقَاهُ اللَّهُ الشُّؤْءَ وَعَيْنَ الشُّؤْءِ“ اللہ اس کو

بڑائی سے بچائے (— وَقِيًا وَوَقِيًا) الْأَمْرُ:

درست کرنا۔

وَقَى يَبْقِي وَقِيًا وَوَقَى يَبْقِي وَقَى الْفَرْسُ

مِنَ الْجِحْفِ: گھوڑے کے کھر کا گھستا۔

تَقَى يَتَّقِي تَقِيًا وَتَقَاءً وَتَقِيَةً: پرہیز کرنا۔

اتَّقَى اتَّقَاءً وَتَوَقَّى تَوَقِيًا فَلَانًا: پرہیز کرنا۔

خوف کرنا۔ واتَّقَى اتَّقَاءً: پرہیز گار ہونا۔ واتَّقَيْنَا

بِهِ: ہم نے دشمن سے حفاظت کیلئے اس کو اپنے

آگے کر لیا۔ کہا جاتا ہے ”مَا اتَّقَاهُ لِلَّهِ“ وہ اللہ سے

کس قدر ڈرنے والا ہے۔

الْوُقَاءُ وَالْوُقَاءُ وَالْوُقَايَةُ وَالْوُقَايَةُ وَالْوُقَايَةُ:

کسی چیز کی حفاظت کا: ریبہ۔

التَّقْوَى: پرہیز گاری۔ اللہ کا خوف اور اس کی

اطاعت کے مطابق عمل۔

التَّقَاةُ: پرہیز گاری۔ ج تنقی۔

التَّقِيَّةُ: ج اتَّقِيَاءُ وَتَقْوَاءُ وَالتَّقِيَّةُ: پرہیز گاری۔

سُنَّجٌ وَقِيٌّ وَوَأَقِيٌّ: زخمی نہ کرنے والا زین۔

فَرَسٌ وَأَقِيٌّ: پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے چلنے سے

ڈرنے والا گھوڑا۔

الْوَأَقِيُّ وَالْوَأَقِيُّ: بکسر القاف: کوا۔ اور يعقل

بعض الثورا۔

الْوَأَقِيَّةُ: مہ۔ وِاقِيٌّ: کامنٹ ج و اِقِيَات

وَأَوَاقٍ (أَوَاقٍ) میں پہلے دو کو حمزہ سے بدل دیا گیا

ہے اس لیے کہ دو واؤ کا جمع ہونا مکروہ ہے)

وَرَجُلٌ وَقَاءً: بہت پرہیز کرنے والا مرد۔

الْوَأَقِيَّةُ جِ أَوَاقِيٌّ وَالْوَأَقِيَّةُ جِ وَقِيٌّ وَ

وَقَايَا: رطل کا ہار حواں حمتہ۔ ایک وزن جو سات

مشتال کا ہوتا ہے۔

المَوْقِيُّ: مہم۔ بہادر۔

أَوْكَاءُ إِنْكَاءٌ: کسی کے لیے تکیہ لگانا۔ اوکاءُ

عَلَى الشَّيْءِ: تکیہ لگانا۔ سارا لینا۔

تَكَبَّيْتُ بِتَكَاةٍ تَكَاةً الرَّجُلُ: تکیہ لگانا۔

وَإِكَاءٌ مَوَاكَاةٌ وَوَكَاءٌ عَلَى يَدَيْهِ: دونوں

ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا اور پھیلانا۔

اتَّكَاةُ إِنْكَاءٌ: تکیہ لگانے والے کی بہت پر کسی

چیز کو ڈالنا۔ تکیہ لگانے کیلئے کسی چیز کو بچھانا۔

إِنْكَاءُ إِنْكَاءٌ عَلَى السَّرْفِيِّ: سارالے کر لینا۔

بِيْهٍ يَأْخُذُ بِأُظْفَارِ كَأْسِيٍّ جِزْزٍ سَارَا لِكَاةً — عَلَى

عَضَاةٍ: سارا لینا — الْقَوْمُ عِنْدَهُ: کھانا۔

تَوَكَّأَ عَلَى عَضَاةٍ: سارا لینا۔ تکیہ لگانا۔

الْإِنْكَاءُ مہ — عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِ: اہل

عروض کی اصطلاح میں حشو فضول۔

التَّكَاةُ: تکیہ لگانے کی چیز جسے لاشیٰ کہنا

وغیرہ بہت بہت تکیہ لگانے والا مرد۔

التَّكَاةُ: تکیہ لگانے کی چیز جن فتنکات۔

وَكَبَّ يَكِبُّ وَكَبًا: سیدھا کھڑا ہونا۔ عَلَى

الْأَمْرِ: مداومت کرنا (— وَكَبًا وَوَكْبًا

وَكَبَانًا) آہستہ چلنا۔

وَكَبَّ يَكِبُّ وَكَبًا وَوَكْبًا وَوَكْبًا: چلتے ہو

کر رنگ کالا پڑنا۔ وَكَبَّ الْقَوْمُ: پہلا ہونا

وَكَبَّ الثَّقَاةُ: غصوں پر متوسطا رسی باندھنا۔

وَكَتَبَ مَوَاكِبَةً عَلَى الْأَمْرِ: مداومت کرنا

— المَوْكِبُ: جلوس میں ساتھ ساتھ چلنا۔

أَوْكَبَ إِنْكَابًا: جلوس کے ساتھ رہنا۔

— الظَّالِمُ: پرندہ کا اڑنے کیلئے آمادہ ہونا یا

اُترتے ہوئے پر پھڑ پھڑانا — عَلَى الْأَمْرِ:

مداومت کرنا — غُضْبَتَاكَ: ہٹنا۔

الْوَأَكِبَةُ: جانور کی ایک ٹانگ۔

الْوَأَكِبُ: بہت غمگین۔

ظَلْمِيَّةٌ وَوَكْبٌ: اپنے گلے کے ساتھ رہنے والی

ہرنی۔

المَوْكِبُ: سواروں یا پیڈل چلنے والوں کی

جماعت۔ ج مَوَاكِبُ۔

وَكَبَّتْ يَكِبُّ وَكَبًا: چھوٹے چھوٹے قدم رکھ

کر چلنا — الدَّابَّةُ: چھوٹا یا جلدی جلدی اٹھانا

اور رکھنا — الْقَدْحُ: پیالہ بھرنا —

الکِتَابُ: کتاب میں نکلنے لگانا — فِي الشَّيْءِ:

نشان لگانا۔

وَكَبَّتْ تَوَكَّبَتَا الْقَرْيَةَ: ملک بھرنا۔ البَشِيرُ:

چنگلی کارنگ ظاہر ہونا۔

الْوَكْبُ: مہم۔ تھوڑی چیز۔

الْوَكْبَةُ: داغ۔

الْوَكْبَاتُ: سستی سے چھوٹے چھوٹے قدم

سے چلنے والا۔

الْوَكْبِيَّةُ: چغل خوری۔

المَوْكِبَاتُ: مہم۔ سخت غمگین۔

إِسْتَوَكَّبَ اسْتَيْكَاةً: ناشتہ کرنا۔

الْوَكَاةُ وَالْوَكَاةُ: ناشتہ۔

وَكَبَّ يَكِبُّ وَكَبًا: کھانا بچھنا۔ سخت روندنا۔

أَوْكَبَ إِنْكَابًا: منع کرنا اور مسائل پر

خنی کرنا — العَطِيَّةُ : کانا — عن الأمرِ : رکنا۔
باز رہنا — في الحفرِ : کھودنے میں پھرا سخت
زمن پر پہنچنا۔

استنوخجحت استينكاخا الفراخ : چوزوں کا
مونا ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "سأله فاستنوخج"
اس نے اس سے مانگا اور وہ دینے سے رک گیا۔
الأوئج : پتھر سخت جگہ۔ مٹی۔

الوئج : مونے چوزے۔ واحد الوئج۔ یا
الوئجوح۔

وَكَّدَ يَكْدُ وَكُودًا بِالْمَكَانِ : اقامت کرنا
— وَكَّدَا الشئُ : قصد کرنا اور کہا جاتا ہے
"وَكَّدَ وَكْدُهُ وَكَّدَ الْأَمْرُ" : مشق کرنا —
وَوَكَّدَ وَأَوَكَّدَ وَأَكَّدَ وَآكَّدَ الْعَهْدَاو
السَّجُجُ : مضبوط کرنا۔ باندھنا (داؤ سے فصیح
ہے)۔

تَوَكَّدَ وَتَوَكَّدَ : مضبوط ہونا۔ باندھا جانا۔

الوئج۔ مہ۔ مراد۔ قصد۔ ارادہ۔

الوئج۔ کوشش۔

الوئجاد والوئجاد : رسی یا تسمہ جس کو دھننے
کے وقت گائے کی ٹانگ میں باندھتے ہیں۔ ج
وکائد۔

الوئجید والوئجید : سخت۔ مضبوط۔ ثابت۔

الأوئجید والوئجید : اسم تفضیل۔

التوئجید والتوئجید والتوئجید : تھے جن

سے زین کے اگلے حصہ کو باندھتے ہیں۔ ظاہری

ہے کہ ان الفاظ کے واحد نہیں۔

المُتَوَكِّدُ : کام کے لیے مستعد آمادہ۔

وَكَّرَ يَكْرُ وَكْرًا وَكْرًا وَالطَّائِرُ : گھونسلے میں

داخل ہونا — الطَّيْرُ : ہرن کا کودنا (وَكْرَهُ

وَكْرًا) کسی کے ناک پر مکارنا (— وَكْرًا وَكْرًا

وَأَوْكِرُ الْأِنَاءَ : برتن بھرنا۔

وَكَّرَ وَتَوَكَّرَ الطَّائِرُ : پرندہ کا گھونسلہ بنانا۔

تَوَكَّرَ الصَّبِيُّ : بچے کا شکم سیر ہونا —

الطَّائِرُ : پرندہ کا کھرے ہوئے پونے والا ہونا۔ کہا

جاتا ہے "شَرِبَ حَتَّى تَوَكَّرَ" اس نے پیاساں

تک کہ آسودہ ہو گیا۔

الوئج۔ مہ۔ گھونسلے ج اُوَكَّرُوا وَكَارُوا وَكَّرُوا

(— وَالوئجُ وَالوئجُ) دوڑکی ایک قسم ناقہ۔

وَكَّرَى : تیز رفتار اونٹنی۔

الوئجۃ۔ اسم مرۃ۔ گھونسلہ ج وَكَّرَا —

والوئجۃ والوئجۃ والوئجۃ) عمارت سے

فراغت کی خوشی کی دعوت۔

وَكَّرَهُ يَكْرُهُ وَكَّرًا : بنانا۔ مکارنا۔ وکڑہ

بِالزَّمْعِ : نیزہ مارنا۔ وَكَّرَ الزَّمْعُ لِي الْأَرْضِ :

نیزہ کو زمین میں گاڑنا — الْقَرْيَةُ : محکم بھرنا —

أَنْفَهُ : ناک توڑنا۔ وَكَّرَ فَلَانٌ : دوڑنا۔

تَوَكَّرَ لِلْأَمْرِ : آمادہ ہونا — عَلَى عَصَاهُ :

لاٹھی پر ٹیک لگانا — مِنَ الطَّغَامِ : شکم سیر ہونا۔

الوئجان۔ واکر کا اسم مالہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ

وَكَارًا لِكَارِ كَانَتْ حَتَّى نَكَارًا"۔

ناقہ وَكَّرَى پستہ قداونٹی۔

وَكَسَّ يَكْسُ وَكْسًا الشئُ : گھٹانا۔ کم ہونا۔

وَكَسَّ الشئُ : گھٹانا۔ وَكَسَّ الشَّجَرُ وَأَوْكَسَّ

فِي بَحَارِهِ : نقصان اٹھانا۔

وَكَسَّ الشئُ : گھٹانا — فَلَانًا : جھڑکنا۔ ڈانٹنا۔

الوئجس۔ مہ۔ چاند کی وہ منزل جس میں گمن

ہوتا ہے۔ چاند کا محوس ستارہ کی منزل میں داخل

ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ لَيْلَةُ الْوَكْسِ" یعنی یہ چاند

کے محوس ستارہ میں داخل ہونے کی رات ہے۔

زخم کی پیپ۔ کہا جاتا ہے "بُرُوبُ الشَّجَةِ عَلَى

وَكْسٍ" زخم اندر سے پیپ رہتے ہوئے اوپر سے

اچھا ہو گیا "وَلَا وَكْسٌ وَلَا سَطَطٌ" بغیر کمی زیادتی

کے۔

الأوئجس۔ زیادہ کم۔ رَجُلٌ أَوْكَسٌ : خسیس

کینہ یا کم حصہ والا۔

وَكَظَّ يَكْظُ وَكَظًا : اٹھنا۔ اٹھنا۔ اٹھنا۔ اٹھنا۔

تَوَكَّظَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ : علیحدہ کرنا۔

تَوَكَّظَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ : معاملہ کا پیچیدہ ہونا۔

وَكَعَهُ يَكْعُهُ وَكَعًا : سرنڈلش کرنا۔ وَكَّعَ

أَنْفَهُ : ناک توڑنا — الشَّاةُ : دوہنے وقت تھن پر

ہاتھ مارنا۔

وَكَعَ يَوَكِّعُ وَكَعًا : جھٹکیا کی طرف مڑے

ہوئے قدم والا ہونا۔ صفت أَوْكَعٌ۔ مؤنث

وَكَعَاءٌ۔

وَكَعَ يَوَكِّعُ وَكَعًا : لٹیم و کینہ ہونا —

الشئُ : سخت ہونا۔ صفت وَكَّعٌ۔

أَوْكَعَ الرَّجُلُ : بے خبر و برکت ہونا۔ دشوار کام

لانا — الشئُ : مضبوط کرنا — الْقَدَمُ : موٹا اور

سخت ہونا — الْأَمْرُ : مضبوط و سخت ہونا۔

الشَّقَاءُ : مضبوط کرنا۔

إِتَّكَعَ الشئُ : سخت ہونا۔

إِسْتَوْكَعَ الرَّجُلُ : سخت معدہ والا ہونا۔

بِعَدَّتِهِ : سخت ہونا — الْفِرَاحُ : چوزہ کا موٹا

ہونا۔

الوئجع۔ سخت مضبوط۔ أَمْرٌ وَكَّعٌ : محکم

معالہ۔ الوئجع : بکری کہ جس کے پیچھے گدے کی

بکریاں تھیں۔ اور کہا جاتا ہے وَكَّعٌ لِكَيْفِ وَ

وَكَّعٌ لِكَيْفِ عَنِّي كَيْفَ آدَى۔

الأوئجع۔ کینہ۔ بیوقوف۔

المبئجع۔ مضبوط۔ محکم۔ ٹٹے کا بلاورا۔

المبئجعة۔ بال کا پھل۔

وَكَفَّ يَكْفُ وَكَفًا وَكَيْفًا وَكُوفًا وَ

كَفَانًا وَتَوَكَّفَا الدَّمْعُ وَنَحْوُهُ : پینا —

البيئُ : چھت پینا۔ وَكَفَّتْ وَكَفًا وَكَيْفًا

العَيْنُ الدَّمْعُ : آنکھ کا آنسو پکانا۔

وَكَفَّ يَوَكِّفُ وَكَفًا الرَّجُلُ : گناہ کرنا۔ ظلم

کرنا۔

أَوْكَفَ إِيكَاهَا الدَّمْعُ وَالبيئُ : پینا۔

هُ : گناہ کرنا۔ أَوْكَفَتِ الْمَرْأَةُ : ولادت کے

قریب ہونا۔

وَكَفَّ وَأَكْفَفَ وَأَكْفَفَ الْجَمَارَ : گدھے پر

پالان رکھنا۔ وَكَفَّ الْوَكْفَ : پالان بنانا۔

وَكَفَّ مَوَاكِفَةَ الرَّجُلِ فِي الْحَرْبِ

وَغَيْرِهَا : مقابلہ کرنا۔

تَوَكَّفَ السَّطْحُ : چھت پینا — البيئُ

چھت پینا — الْأَمْرُ : ڈھونڈنا۔ طلب کرنا۔ چھپا

کرنا — لِفَلَانٍ : کسی کے درپے ہونا یہاں تک

کہ ملاقات ہو جائے — الْخَيْرُ : ظاہر ہونے کی

امید رکھنا۔

تَوَاكَّفَ : انحراف کرنا۔ مُدَّ بَهْرَانًا : کنارہ ہونا۔

إِسْتَوْكَفَ إِسْتِيكَاةَ الْمَاءِ : پکانا۔ جاری

کرنا۔

الوئجف۔ چڑے کا چھوٹا۔

الوئجف۔ مہ۔ عیب۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْأَمْرُ

وَكَفَّ عَلَيْنَكَ" یہ کام تمہارے لیے عیب ہے۔
فساد۔ کمزوری۔ ہیبت۔ بوجھ۔ سختی۔ دامن کوہج
اَوْكَاف. کہا جاتا ہے "إِنِّي لَأَخْشَى عَلَيْنَكَ
وَكَفَّ فَلَانَ" مجھے تمہارے اوپر فلاں کے ظلم کا
خوف ہے "وَفَلَانٌ عَلَيَّ وَكَفَّفَ مِنْ حَاجَتِهِ"
جبکہ نہ جانتا ہو کہ کون سی حاجت ہے۔ "وَلَيْسَ
عَلَيْكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَكَفَّفَ" تمہارے لیے
اس معاملہ میں کوئی عیب نہیں۔

الْوَكَّافُ وَالْإِكَّافُ عِرْقُ كَبِيرٍ وَكَفَّفَ
الْوَاكِفُ. نا۔ موسلا دھار بارش۔
سَحَابٌ وَكَوْفٌ. تھوڑا تھوڑا برسنے والا
بادل۔

وَكَّلَ يَكْوِلُ وَكَلًّا وَوَكَّلُوهُ إِلَيْهِ الْأَمْرَ: سپرد
کرتا۔ کسی پر بھروسہ کر کے کام چھوڑ دینا۔ کہا جاتا
ہے "يَكْلِنِي إِلَى كَذَا" مجھے چھوڑ دو کہ میں اس
کام کو کروں۔

أَوْكَلَ الْإِكْلَاءُ: سپرد کرنا — بِاللَّهِ: اعتماد
بھروسہ کرنا۔ مطبوع و فرمایا ہوا ہونا۔ أَوْكَلَ الْعَمَلُ
عَلَى فَلَانٍ: سارا کام کسی کیلئے چھوڑ دینا۔
وَكَّلَ تَوَكَّلًا فَلَانًا: وکیل بنانا۔ اسم الوكالة
والبوكالة.

وَأَكَلَ وَكَلًّا وَهُوَ أَكَلَةُ الْقَوْمِ: بعض کا بعض
پر بھروسہ کرنا (— وَكَلًّا) الذَّابَّةُ: چوپایہ کا بڑا
چلنا۔ ست چلنا۔

تَوَكَّلْ. وکیل بننا — لَهُ بِاللَّحْجَاحِ: کامیابی کا
ضامن ہونا (— وَأَتَكَّلَ) عَلَى اللَّهِ: بھروسہ
کرتا۔ مطبوع و فرمایا ہوا ہونا۔ اَتَكَّلَ فِي أَمْرِهِ عَلَى
فُلَانٍ: اعتماد و بھروسہ کرنا۔ تَوَكَّلَ فِي الْأَمْرِ:
عاجزی ظاہر کرنا اور غیر اعتماد کرنا۔

تَوَاكَلُ الْقَوْمِ: بعض کا بعض پر بھروسہ کرنا۔
تَوَاكَلُوهُ: چھوڑ دینا اور مدد نہ کرنا۔ تَوَاكَلُوا
الْكَلَامَ: ہر ایک کا اپنے ساتھی پر بھروسہ کرنا۔
اور کہا جاتا ہے "اسْتَعْنَتْ الْقَوْمُ لَتَوَاكَلُوا"
میں نے قوم سے مدد طلب کی ہر ایک نے
دوسرے کے سپرد کیا۔

الْوَكَّلُ وَالْوُكْلَةُ وَالْوَكْلَةُ وَالْوَاكِلُ: عاجز
آدی جو اپنے امور کو دوسرے کے سپرد کر دے
اور اس پر بھروسہ کرے۔

الْوَكْلُ: نجی۔ بزدل۔ عاجز۔

الْوَكَّالُ وَالْوَكَّالَةُ: کمزوری۔ عبادت۔

الْوَكَّالَةُ وَالْوَكَّالَةُ: توکیل کے اسم ہیں۔ یعنی
سپردگی و بھروسہ و نکالات۔

الْوَكَّالَانِ: سپردگی و بھروسہ۔

الْوَاكِلُ. نا۔ — مِنَ الْخَيْلِ: وہ گھوڑا جس کے
چلنے کیلئے مارنے کی ضرورت ہو۔

الْوَاكِلُ: وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے یا وہ
شخص جس کے سپرد عاجز آدمی اپنا کام کر دے۔ دلیر۔
ج و کلاً۔ اور جب یہ اسماء حسنیٰ میں سے ہو تو اس
وقت روزی دینے والا کفایت کرنے والا کے معنی
ہوتے ہیں۔

الْمَوْكُولُ: مضم۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْأَمْرُ
مَوْكُولٌ إِلَيَّ وَإِلَيْكَ" یعنی یہ کام تمہارے سپرد
ہے۔

وَكَمَّ يَكْمُ وَكَمًّا فَلَانًا عَنْ حَاجَتِهِ: بہت سختی
سے باز رکھنا — الْأَمْرُ فَلَانًا: غمگین کرنا۔
وَكَمَّتِ الْأَرْضُ: روندی ہوئی اور چری ہوئی
گھاس والی ہونا۔

وَكَمَّ يَكْمُ كَمَّةً الزَّجْلُ مِنَ الشَّيْءِ: اداس و
غمگین ہونا۔

الْوَكْمَةُ: اسم مرۃ۔ بیش۔ جس میں درندے زیادہ
ہوں۔

الْمَوْكُومُ: بہت غمگین۔

وَكَنَّ يَكْنُ وَكْنًا وَوَكَّنُوهُ الظَّائِرُ يَبْضَعُ أَوْ
عَلَى يَبْضَعُ: پرندہ کا انڈے سینا۔ صفت مذکر
وَإِكْنُ ج وَوَكَّنُ صفت مؤنث وَإِكْنَةٌ. ج وَوَكَّنُ
وَوَاكِنَاتٌ — الظَّائِرُ: گھونسلے میں داخل ہونا
— وَكَّنَا الزَّجْلُ: تیز چلنا۔ بیٹھنا۔

تَوَكَّنَ الزَّجْلُ: مجلس میں اچھی طرح تکیہ لگانا۔
کسی جگہ پر قرار پکانا۔

الْوَاكِنُ: بیٹھنے والا۔ مؤنث وَإِكْنَةٌ — مِنَ
الظَّلِيمِ: درخت یا کڑی یا دیوار میں وہ جگہ جہاں
پرندہ بیٹھے۔

الْوَكْنُ ج أَوْكُنٌ وَوَكْنٌ وَوَكُونٌ وَالْوَكْنَةُ
وَالْوَكْنَةُ وَالْوَكْنَةُ وَالْوَكْنَةُ ج وَكْنَاتٌ
وَوَكْنَاتٌ وَوَكْنَاتٌ وَوَكْنٌ وَالْمَوْكِنُ
وَالْمَوْكِنَةُ: گھونسلے۔ المَوَكِّنُ: وہ جگہ جہاں

انڈے ہوں۔

وَكْوَلُ الْحَمَامِ: کوکو کرنا — فَلَانٌ مِنَ
الْحَوْبِ: لڑائی سے بھگانا (— وَتَوَكْوَلُ)
الزَّجْلُ: لڑھکتے ہوئے چلنا۔

الْوَكْوَلُ: بزدل۔ چلنے میں لڑھکتے والا۔

وَكَحَى يَكْحِي وَكَيْحًا الْقِرْبَةُ: مٹک کو بندھن
سے باندھنا۔

وَكَحَى مَوَاكَاةً وَوَكَاةً دَعَاكَ وَقْتُ دَوَاوُنِ
بَاهَتُونَ كَوَاثِمًا۔

أَوْكَى إِكْيَاءَ الْقِرْبَةَ وَعَلَى مَا فِي الْقِرْبَةِ:
مٹک کو بندھن سے باندھنا — الزَّجْلُ: بھل
کرتا۔ کہا جاتا ہے "سَأَلْنَا فَاَوْكَى عَلَيْنَا" ہم
نے اس سے مانگا اور اس نے بھل کیا۔ تیز دوڑنا
— وَوَكْحَى الْقِرْبَةُ الْمَيْدَانِ جَزُونًا: گھوڑے کا
میدان میں چاروں طرف دوڑنا۔

اسْتَوْكَى الْوَعَاءَ: برتن کا بھر جانا —
الْبِظْلُ: قبض ہونا۔

الْوَكَاءُ: مٹک وغیرہ کا بندھن۔ برتن وغیرہ
جس کے سرے کو باندھ دیا گیا ہو۔ ج وَوَكَيْتُهُ۔

الْمَوْكِي: مضم۔ بندھے ہوئے سرے کی مٹک۔
وَلَبَّ يَلْبُ وَوَلْوًا: داخل ہونا اور جلدی کرنا
— الْيَلْبُ الشَّيْءُ: پہنچنا۔

الْوَالِبُ: کسی چیز میں داخل ہونے والا۔

الْوَالِيَةُ: کھیت کی روئیدگی — مِنَ الْقَوْمِ أَوْ
الْمَوَالِي: اولاد نسل۔

وَلَبَّ يَلْبُ وَوَلْوًا أَوَّلْتَ فَلَانًا حَقًّا: گھٹانا۔
کم کرتا۔

وَلَبَّ يَلْبُ وَوَلْوًا فَلَانًا بِالْعَصَا: لاشمی سے
مارنا — لَهُ عَقْدًا: کمزور و عذرہ کرنا — فَلَانٌ:
غلام سے کما کر تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے
وَلَقْنَا السَّمَاءَ: تھوڑی بارش سے تر کرنا۔

الْوَلْتُ: مہ۔ تھوڑی بارش۔ کمزور و عذرہ۔ برتن
میں نیبذ کا بیقہ۔ آشوب چشم کا اثر۔

وَلَجَّ يَلِجُ وَوَلَجًا وَوَلَجَةً الْبَيْتُ وَوَلَجَ
الشَّيْءُ فِي غَيْرِهِ: گھر میں داخل ہونا۔

وَلِجَ الزَّجْلُ: بیعت کی تیاری والا ہونا۔
وَلِجَ الْمَالُ: لوگوں کے سوال سے بچنے کے
لئے اپنی زندگی میں اولاد میں سے کسی کو مال دے

حضرت عیسیٰ ﷺ کی پیدائش کا دن۔ کرسس ڈے۔

المَوْلَدُ - مفعول۔ نیا پیداشدہ اور اسی سے ہے "المَوْلَدُونَ مِنَ الشَّعْرَاءِ" اور "الادبَاءِ" ان کے تھے ہونے کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا۔

رَجُلٌ مَوْلَدٌ وَكَلَامٌ مَوْلَدٌ: غیر خالص عربی مر دیا کلام۔

المَوْلُودَةُ - دالی جنائی۔

المَوْلُودَةُ - نئی پیداشدہ چیز کہا جاتا ہے "جَاءَنَا بِسِنَّةٍ مَوْلُودَةٌ" وہ ہمارے پاس ایسا نیا لیا جو محقق نہیں۔

المَوْلُودُ - مفعول۔ چھوٹا بچہ جو مولید۔

وَلَدٌ يَلِدُ وَلَذَا الرَّجُلِ: تیز چلنا۔ تیز حرکت کرنا۔

الْوَالِدُ - درون گو خورد رائے۔

وَلَسْتُ قَلِيصٌ وَلَسْنَا وَوَلَسْنَا: الأَبِلُ: اونٹ کا تیز دوڑنا۔ صفت وَلَوَسٌ (— وَلَسًا) الرَّجُلِ: دھوکا دینا۔ خیانت کرنا۔

الْحَدِيثُ: کتابیہ سے بات کرنا۔

وَالسَّهْمُ مَوْلُودٌ: قریب دینا۔ مدد دینا کرنا (— وَأَوَّلَسَ بِالْحَدِيثِ: کتابیہ سے بات کرنا۔

تَوَلَّسَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ: کسی کے خلاف دھوکا اور خیانت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

الْوَالَسُ: بھیڑیا۔

وَلَعٌ يَلْعَقُ وَلَعَابٌ حَقِيقُهُ: حق مار لینا۔ وَلَعَاوُ وَلَعَاوُ: دوڑنے میں ہلکا پھلکا ہونا۔ جھوٹ بولنا۔ اور کہا جاتا ہے "مَا أَذْرِي مَا وَلَعَهُ" مجھے نہیں معلوم اس کو کس چیز نے روکا۔

وَلِعٌ يَوْلَعُ وَيَلْعَقُ وَلَعَاوُ وَلَوَعَاوُ: اِنْبِلَاعًا وَتَوَلَعُ بِهِ: بہت محبت کرنا۔ شیفتہ ہونا۔ بہت گرویدہ ہونا۔ وَلِعٌ بِهِ: بھڑکایا جانا۔

وَلِعَ الْقَوْمُ: بیل کے چنگر سے رنگ کالسا ہونا (— جَسَدُهُ: سفید داغوں والا بنانا — هُ بَقْلَانٍ: بھڑکانا۔ کہا جاتا ہے "انْبَعَثَ فُلَانٌ وَالْعَبَّةُ" یعنی اس کا حال مجھ سے ختمی ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ مر گیا یا زندہ ہے۔

اِنْتَلَعَ فُلَانٌ قَلْبِي: بول نکال لینا۔

الْوَلَعُ - مفعول۔ جھوٹ۔

گھاس والی زمین۔

الْوَلَجُ مِنَ الْعُشْبِ: لمبی پیچیدہ گھاس۔

وَلَدَتْ تِلْدًا لَيْدَةً وَوَلَدَاوُ وَوَلَادَةٌ وَوَلَادَةٌ وَوَلَادَةٌ مَوْلِدًا الْأَنْثَى: جننا۔ صفت وَالِدٌ وَالْوَالِدَةُ - الْأَرْضُ النَّبَاتُ: اگانا۔

وَلَدَ الْوَلَدُ: پرورش کرنا۔ الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ پیداکرنا۔ اگانا۔ الْكَلَامُ أَوْ الْحَدِيثُ: نیا پانا۔

— الْقَابِلَةُ الْمَرْأَةُ: جنونا۔ اور کہا جاتا ہے "وَلَدَ الرَّجُلُ عَنَمَةً" آدمی نے اپنی بکریوں کے بچے نکلائے۔ جیسے بولا جاتا ہے نَتَجَّحَ اِبْنُهُ۔

أَوْلَدَتْ اِبْنًا لَدَا الْمَرْأَةَ: جننے کا وقت قریب ہونا۔ الشَّاءُ: جننا۔ صفت مَوْلِدٌ ج موالد و مَوْلِيدٌ۔

تَوَلَّدَ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِهِ: پیداہونا۔

تَوَلَّدُوا اِتْلَدَ الْقَوْمُ: بہت ہونا۔

اِسْتَوْلَدَ الْمَرْأَةُ: حاملہ کرنا۔ فُلَانٌ — بچہ طلب کرنا۔

الْوَالِدُ وَالْوَالِدَةُ وَالْوَالِدُ وَالْوَالِدَةُ: بچہ نہ کر مونس تشبیہ جمع سب پر اطلاق ہوتا ہے اور یہ لفظ مذکر ہے اور کبھی اولاد و ولدہ والذہ و ولد کے اوزان پر جمع لاتے ہیں۔

الْوَالِدُ - باپ ج والذون۔ الوالیدان ماں باپ۔ شَاءَةٌ وَالذُّ: حاملہ بکری ج ولد۔

الْوَالِدَةُ - ماں ج والذات۔ اللیذۃ - مہ - ہم عمر۔ بسم (اس کی اصل ولد ہے) تم کہتے ہو "فُلَانٌ لِدَتِي" فلاں میرا ہم عمر ہے تشبیہ لیدان ج لیدات و لیدون اور اس کی تصغیر و لیدات و و لیدون۔ اللیذۃ: جننے کا وقت۔

الْوَالِدَةُ - بہت جننے والی۔ الوالود من الششاء: جننے والی بکری۔ بہت جننے والی ج ولد۔

الْوَالِدِيَّةُ وَالْوَالِدِيَّةُ: بچپنا۔ سخت دلی۔ الولید - پیداشدہ۔ بچہ۔ غلام ج ولد و ولدان مونس و لیدۃ ج ولید۔ أم الولید: مرگی کی کنیت۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّ ذَلِكَ فِيهِ وَلَيْدِيَّتِهِ"

اس نے اپنے بچپن میں ایسا کیا۔ المَوْلِدُ - مہ۔ پیدائش کی جگہ یا وقت۔ ج موالد۔ الميئاد - پیدائش کا وقت و عيئد الميئاد

الْوَالِدَةُ - بہت زیادہ لانا۔ الوالیدۃ - بوری ج ولانج و ولینج۔ وَلَعَهُ يَلْعَقُهُ وَوَلَعًا: تھپڑ مارنا۔

أَوْلَعَ الْعُشْبُ: گھاس لمبی اور بڑی ہونا۔ اِنْتَلَعَ الْأَمْرُ: غلط نظر ہونا۔ اِسْتَوْلَعَتْ اِسْتَيْبِلَتْهَا الْأَرْضُ: زمین کا تر ہونا۔

الْوَالِيخُ - کتان کا کپڑا۔ الوالیدۃ - گاڑھا جھابھو اور دھبہ۔ کچڑ۔ اَرْضٌ وَلِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ: پیچیدہ

الْوَالِيخَةُ - کتان کا کپڑا۔ الوالیدۃ - گاڑھا جھابھو اور دھبہ۔ کچڑ۔ اَرْضٌ وَلِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ: پیچیدہ

الْوَالِيخَةُ - کتان کا کپڑا۔ الوالیدۃ - گاڑھا جھابھو اور دھبہ۔ کچڑ۔ اَرْضٌ وَلِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ: پیچیدہ

دینا۔

أَوْلَجَهُ اِبْنًا جَاوًا اِتْلَجَهُ اِتْلَجًا دَاخِلًا عَمَلًا كَرْتًا تَوَلَجَ تَوَلَجًا وَاتْلَجَهُ اِتْلَجًا جَاوًا لِيهِ وَوَالِيخَةٌ دَاخِلًا هُوَ اِتْلَجَ تَوَلَجًا رِيكْتَانِي رَاسًا۔

الْوَالِيخُ - ریکتانی راستہ۔ الوالوج - اطراف۔ کوسے۔ گھاس۔ شد نکالنے کے کچھ۔ اور یہ ولج کی جمع ہے۔

الْوَالِيخَةُ - داخل ہونے کی جگہ۔ وادی کاموس۔ غار جس میں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پتہ لیں ج اَوْلَجٌ وَوَلَجٌ وَوَلَجَاتُ۔

الْوَالِيخَةُ وَالْوَالِيخُ - بہت داخل ہونے والا۔ کہا جاتا ہے "وَوَلَجٌ خَزْوُجٌ" بہت داخل ہونے والا اور خارج ہونے والا۔

الْوَالِيخَةُ - بیٹ کا درو۔ دانت کا درو۔ سانپ اور دروند۔

الْوَالِيخَةُ - آدمی کا باطن۔ بھیدی راز دار معتمد علیہ جو غیر قوم سے ہو۔ قوم میں داخل ہونے والا۔

کما جاتا ہے "هُوَ وَلِيخَتُهُمْ" یعنی وہ ان کی قوم میں داخل ہے حالانکہ ان میں سے نہیں۔

الْوَالِيخُ - بہت داخل ہونے والا۔ الوالوج - دروازہ۔ وادی۔ پست زمین ج وُلَجٌ وَوَلَجٌ۔

الْقَلَجُ - عقاب کا چوڑہ۔ اصل اس کی الولج ہے۔

التَّوَلَجُ - وحشی جالوروں کا بھٹ۔ اس کی اصل الولج ہے۔

المَوْلَجُ - داخل ہونے کی جگہ موالج۔ وَوَلَجٌ يَلْعَقُ وَوَلَعًا دَائِبَةً: چھایہ پر طاقت سے زیادہ لانا۔

الْوَالِيخَةُ - بوری ج ولانج و ولینج۔ وَلَعَهُ يَلْعَقُهُ وَوَلَعًا: تھپڑ مارنا۔

أَوْلَعَ الْعُشْبُ: گھاس لمبی اور بڑی ہونا۔ اِنْتَلَعَ الْأَمْرُ: غلط نظر ہونا۔ اِسْتَوْلَعَتْ اِسْتَيْبِلَتْهَا الْأَرْضُ: زمین کا تر ہونا۔

الْوَالِيخَةُ - کتان کا کپڑا۔ الوالیدۃ - گاڑھا جھابھو اور دھبہ۔ کچڑ۔ اَرْضٌ وَلِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ: پیچیدہ

الْوَالِيخَةُ - کتان کا کپڑا۔ الوالیدۃ - گاڑھا جھابھو اور دھبہ۔ کچڑ۔ اَرْضٌ وَلِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ: پیچیدہ

الْوَالِيخَةُ - کتان کا کپڑا۔ الوالیدۃ - گاڑھا جھابھو اور دھبہ۔ کچڑ۔ اَرْضٌ وَلِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ: پیچیدہ

الْوَالِيخَةُ - کتان کا کپڑا۔ الوالیدۃ - گاڑھا جھابھو اور دھبہ۔ کچڑ۔ اَرْضٌ وَلِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ: پیچیدہ

الْوَالِيخَةُ - کتان کا کپڑا۔ الوالیدۃ - گاڑھا جھابھو اور دھبہ۔ کچڑ۔ اَرْضٌ وَلِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ وَوَالِيخَةٌ: پیچیدہ

الوالع۔ قا۔ جھوٹا ج و لَعَة مؤنث والَعَة کہا جاتا ہے
ہے "ولع والبع" بڑا جھوٹ۔

الولع والولوع والالعة۔ بہت محبت اور
تعلق والا۔

الولعة۔ لایین باتوں کا گرویدہ۔

الولیع مجھور کا گھونٹنا گھٹتے واحد ولیعۃ۔

المولع۔ منہ۔ برص کی بیماری والا۔ المولع من
الدواب وہ جو یہ ہے جس کے بدن پر سیاہ سفید کے
علاوہ اور مختلف رنگ ہوں۔

المؤتلع القلب والمثلغ القلب آشفتہ
دل۔

ولع یلغ وولع یتلغ وولع یتلغ وولع یتلغ وولع یتلغ
وولع یتلغ وولع یتلغ وولع یتلغ وولع یتلغ وولع یتلغ
کئے کا برتن میں منہ ڈالنا۔ اطراف زبان سے چینا۔

أولع إبلاغاً الکذب کئے کرنا۔
الولعة۔ اسم مرۃ۔ چھوٹی ڈوہلی۔

المیلغ والمیلغۃ۔ برتن جس میں کتا منہ ڈال
دے یا جس میں پانی پلایا جائے۔ جھینگ۔

المستولع من الناس۔ تنگ و عار کی پروانہ
کرنے والا۔

ولف یلف ولفا وولفا وولفا وولفا وولفا وولفا
الیزق: بجلی کا گاتار چمکانا (ولف القوم: اکٹھے آنا۔

والفۃ وولفا وولفا وولفا وولفا وولفا وولفا
طرف نسبت کرنا اور متصل ہونا۔

توالف مؤالفۃ وولفا (تالفا التشتیان:
ایک دوسرے سے الفت و محبت کرنا۔

الولف۔ ساتھی۔ دوست۔

الولیف والولوف۔ گاتار چمکنے والی بجلی۔

الولاف والولیف۔ منہ۔ ایک قسم کی وڑجس
میں ناکھیں مبارگی زمین پر پڑتی ہیں۔

ولق یلق ولقا فی الشیر: جلدی چلنا۔ ہ
بالزومج: ہلکا تیز مارنا۔ ہ بالشیف: کھوار

سے مارنا۔ الحدیث: پھیلانا۔ گھڑنا۔
عینہ: آنکھ پر مار کر چھوڑنا۔ فی کذیبہ او

سبیرہ: لگا کر جھوٹ بولنا یا ہمیشہ چلنا۔

أولق إبلاغاً وألق ألقا۔ پاگل ہونا۔ صفت
مألوق ومألوق۔

الولقی۔ اونٹنی کی ایک تیز دوڑ۔ کہا جاتا ہے
"ناقة ولقی" تیز رفتار اونٹنی۔

الولیفة۔ ایک قسم کا کھانا جو آٹا، دودھ اور گھی
سے تیار ہوتا ہے۔

الأولق۔ پاگل ہیں۔

أولم إبلاغاً۔ دلیر کرنا۔ فلان: خلقت میں
یا اخلاق و عقل میں کامل ہونا۔

الولم والولم۔ بند۔ زمین یا جاگہ کا تنگ۔

الولمة۔ تہا۔ کسی چیز کا اجتماع۔

الولیمة۔ شادی کی خوشی کا کھانا۔ ج ولایم۔

تولن الزجل: مصائب کی وجہ سے بچ کرنا۔

ولہ یلہ وولہ یلہ وولہ یلہ وولہ یلہ وولہ یلہ
بہت زیادہ غمگین ہونا یہاں تک کہ عقل زائل

ہونے کے قریب ہو جائے شدت غم کی وجہ سے
تھیر ہونا۔ صفت مذکر والہ وآلہ وولہان و صفت

مؤنث والہ ووالیہ وولہی وولہی وولہی وولہی
أولہ: بچے کا گھبرا کر مرنے کے پاس جانا۔ الأم الی

ولہا: مشتاق ہونا۔

منہ: خوف کرنا۔

ولہ الزجل: شدت غم میں ڈالنا۔ المزاة:
عورت اور اس کے بچے میں جدائی کرنا۔

وأولہ الحزن أو الوجل فلان: سرگشتہ و حیران
بنانا۔

أللہ التبیذ فلان: مدہوش کرنا۔ عقل زائل
کرنا۔

استولت استیلاًھا۔ مدحوس ہونا۔

مأة مؤلۃ و مؤلۃ۔ بیابان کی طرف چھوڑا ہوا
پانی۔ المؤلۃ: کبڑی۔

المیئلة۔ حیرانی و پریشانی میں ڈالنے والا بیابان۔

المیئلاہ۔ تیز ہوا۔ امزاة میلاہ: بچے کی موت
کی وجہ سے بہت جزع فزع کرنے والی عورت۔ ج

مؤالہ۔

ولولت ولولۃ وولولۃ وولولۃ وولولۃ وولولۃ
چیننا۔ ولولت القوس: کمان سے آواز لگانا۔

الولوال۔ شدت غم۔ نزلو۔

ولی ولی یلی ولی یلی ولی یلی ولی یلی ولی یلی
ہو (باب ضرب سے قلیل الاستعمال ہے) بغیر

فصل کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کہا جاتا ہے "جلسنت
مجلسنت"

مغایلیہ

ولی یلی ولایۃ و ولایۃ الشی و علی
الشی: والی ہونا۔ متصرف ہونا۔ الزجل و

علیہ: مدد کرنا۔ البذل: قابض و متصرف ہونا
— ولایۃ الزجل: محبت کرنا۔

ولی المکان: موسم بہار کی بارش سے
سیراب ہونا۔

ولی تولیۃ فلاناً الأمز: والی مقرر کرنا۔ ولأه
مخدا: کسی کے پیچھے کرنا۔ ولأه ظہورہ: اپنے پیچھے

کے پیچھے کرنا۔ ولی الشی و عن الشی: اعراض
کرنا۔ دور ہونا۔ ولی ہارنا: پیچھے دے کر بھاگنا۔

ولی الزطب: خشک ہونے لگنا۔ عن زید یؤذہ:
دوستی کا بدل جانا۔

أولی إبلاغاً فلاناً الأمز: والی مقرر کرنا۔

— ہ مغزوف: کسی پر احسان کرنا۔ اور اسی سے
ہے جو تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے "مأؤلأه

لمغزوف" وہ کتنا فیاض ہے (اور یہ شازہ ہے
اس لیے کہ مٹلائی مزید سے یہ صیغہ نہیں آتا)

أولأه علی التییم: وصیت کرنا۔

والی ولأه مؤالاة الزجل: دوستی کرنا۔ مد
کرنا۔ الشی: لگا کر کرنا۔ الغم: جدا جدا

کرنا۔ یقین الأمزین: بیچا پے کرنا۔

تولی تولیۃ الأمز: ذمہ داری لینا۔ کسی کے کام
کے لیے مستعد ہونا۔ فلاناً: ولی مقرر کرنا

— عنہ: اعراض کرنا اور چھوڑنا تولی ہارنا:
پیچھے دے کر بھاگنا۔ الشی: کسی چیز کے ساتھ

لازم ہونا۔ الزطب: خشک ہونے لگنا۔
علی یؤذہ: دوستی کا بدل جانا۔

توالی تولیۃ۔ بیچا پے ہونا۔ اور کہا جاتا ہے
"توالت الغم عن المغزوف" ہمیشہ مگر یوں سے

جدا ہو گئیں۔

استولی استیلاً علیہ: غالب ہونا۔
قدرت مانا۔ ہونا۔ علی الغایۃ: انتہا کو پہنچنا

— علی الشی: قابض ہونا۔

الولی۔ منہ۔ قرب۔ نزدیکی۔ بارش ہمارے بعد
دوسری بارش (پہلی بارش کو وہی کہتے ہیں) اور

کہا جاتا ہے "ذازہ ولی ذاری" اس کا گھر میرے
گھر کے قریب ہے۔

الْوَلَاءِ - محبت - دوستی - نزدیکی و قربت - مدد - ملکیت - الولاء : میراث جو آزاد کردہ غلام سے یا عقد مولائے کی وجہ سے حاصل ہو اور کہا جاتا ہے "جَاءَهُ الْوَلَاءُ أَوْ عَلِيٌّ وَلَا يَأْتِيهِ" وہ لوگ پہنچے پہنچے آئے۔

الْوَلِيُّ جُ أَوْلِيَةٌ : ہمارے بارش کے بعد دوسری بارش جُ أَوْلِيَاءُ : محبت کرنے والا - دوست - مددگار - پڑوسی - حلیف - تابع - داماد - ہر وہ شخص جو کسی کے کام کا منتظم ہو - کہا جاتا ہے "اللَّهُ وَلِيُّكَ" اللہ تمہارا حافظ و مددگار ہے۔ "وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَةُ لِلَّهِ" یعنی مومن اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔ وَلِيُّ الْعَهْدِ : وارث تحت و تاج - وَلِيُّ الْيَتِيمِ : یتیم کا ولی۔

الْوَلِيَّةُ - مہ - وہ بلا زنجیر پر ایک حاکم قابض ہو۔

جُ وَلِيَّاتٍ - الولایۃ - حکومت - امارت - سلطنت - وہ ممالک جن پر ایک حاکم قابض ہو۔ الولایۃ و الولایۃ و الولایۃ و الولایۃ : رشتہ داری - اور کہا جاتا ہے "هَمْ عَلِيٌّ وَلَا يَأْتِيهِ" او ولایۃ واحده "وہ لوگ میری مدد میں اکٹھے ہیں یا وہ سب میرے خلاف اکٹھے ہو گئے۔"

الْوَلِيَّةُ - ولی کا مؤنث - نزدیکی - عرق گیری جُ وَلِيَّاتٍ و ولایا - ذَاوَلِيَّةٌ : نزدیک کا گھر۔

الْوَالِي - قَاوَالِي التَّلْبَةِ : حاکم - شرح - ولاة۔

الْأَوْلَى - زیادہ حقدار - زیادہ لائق - کہا جاتا ہے

"هُوَ أَوْلَى بِكَذَا" وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔

تَشْيِيرُ أَوْلِيَانِ جُ الْأَوْلُونَ وَالْأَوْلَى مَوْثُ

الْوَالِيَا - تَشْيِيرُ الْوَالِيَانِ جُ الْوَالِي وَالْوَالِيَّاتِ

"وَأَوْلَى لَكَ" دھمکی اور وعید کے طور پر

استعمال ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ شر تمہارے

قریب ہے بچو - اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کے

معنی الْوَالِي لَكَ يَا وَلَايَ اللَّهُ مَا تَكْرَهُهُ" کے

ہیں - اس صورت میں لام ناکہ ہے اور ایسا ہی

"أَوْلَى لِي وَأَوْلَى لَكَ" کہا جاتا ہے۔

الْمَوْلَى - مالک و سردار - غلام - آزاد کرنے

والا - آزادہ شدہ - انعام دینے والا - جس کو انعام دیا

جائے - محبت کرنے والا - ساتھی - حلیف - پڑوسی -

مہمان - شریک - بیٹا - چچا کا بیٹا - بھانجا - چچا - داماد -

رشتہ دار - ولی - تابع جُ الْمَوْلَى اور کہا جاتا ہے

"هُوَ يَتَمَوْلَى عَلَيْنَا" وہ ہمارا سردار بننا چاہتا ہے۔

الْمَوْلِيَا - ایک قسم کے اشعار جن کو گایا کرتے

تھے اور جن کے آخر میں یا موالیا کہا کرتے تھے اور

اپنے سرداروں کی طرف اشارہ کرتے تھے (اور

عوام مَوَالٍ کہتے ہیں جُ مَوَالٍ)

الْمَوْلَى - بچہ جس پر ولی مقرر کیا گیا ہو - مؤنث

مَوْلِيَةٌ۔

الْمَوْلِيُّ - مولیٰ کی طرف منسوب عند

الْمُسْلِمِينَ زائد۔

الْمَوْلِيَّةُ - ایک قسم کی لمبی ٹوپی جس کو فرقہ

مَوْلِيَّةُ کے لوگ پہنا کرتے تھے اور کہا جاتا ہے

"فِيهِ مَوْلِيَّةٌ" اس میں سرداروں کی مشابہت

ہے۔

الْمَوْلَى - فاج و متاولۃ : شیعوں کی جماعت۔

وَمَا يَمًا وَمَا وَمَا تَوَمَّتْ وَأَوْمًا إِنْمَاءٌ

بِحَاجِبِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ : اشارہ کرنا۔

وَأَمَّا مَوَامَّةُ الرَّجُلِ : واء م میں ایک لغت

ہے۔

الْمُوَمَّا إِلَيْهِ : جس کی طرف اشارہ کیا جائے

مذکورہ بالا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

الْوَمَّحَةُ - دھوپ کا اثر۔

وَمِدَّتْ تَوَمَّدَ وَمَدَّ اللَّيْلَةُ : گھٹن کے ساتھ

تیز گرمی والی ہونا - صفت و مِدَّ و مِدَّةٌ و مِدَّ

عَلَيْهِ : غضبناک ہونا - کہا جاتا ہے "هُوَ وَمِدَّ

عَلَيْهِ" وہ اس پر غضبناک ہے۔

الْوَمْدَةُ - رات کی تیز گرمی۔

الْوَمْدَةُ - خالص سپیدی۔

وَمَرَّ يَمْرُؤٌ مَرًّا بِأَنْفِهِ : شخص سے تھنے پھلانا۔

تَوَمَّرَ - اٹھنے کا ارادہ کرنا۔

وَمَسَّ يَمَسُّ وَمَسَّ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ : رگڑنا

یہاں تک کہ چھلکا دیا ہو جائے۔

أَوْ مَسَّتِ الْمَرْأَةُ : بدکار ہونا - أَوْ مَسَّ

الْعَنْبُ : پکنے کے لیے نرم ہونا۔

الْمُوَمِّسُ وَالْمُوَمِّسَةُ - بدکار و فاجرہ عورت ج

مُوَمِّسَاتٌ و مَوَامِسٌ و مَوَامِسٌ و مِيَامِسٌ و

مِيَامِسٌ۔

الْوَمِّسَةُ - بدن انسانی پر سفید قمل۔

وَمَضٌ يَمْضُ و مَضًا و مِضًا و مِضًا و مِضًا

الْبِزْقُ : آہستہ چلنا - صفت و امض۔

أَوْ مَضٌ إِنْمَاضًا الْبِزْقُ : بجلی کا آہستہ چلنا

— الرَّجُلُ : رزمے سے اشارہ کرنا - بجلی یا آگ کی

چمک دیکھنا - مکرانا - أَوْ مَضَّتِ الْمَرْأَةُ بَعَيْنَيْهَا :

عورت کا زبردہ نگاہوں سے دیکھنا۔

الْوَمِظَةُ - تھکن سے زمین پر گرنا۔

الْوَمِظَةُ - بارش کی بوچھاڑ۔

الْوَمِظَةُ - لہا لہا۔

وَمِظَةٌ مِظَةٌ مِظَةٌ و مِظًا : محبت کرنا۔

وَأَمَقَةٌ و مَأَقًا و مَوَامِقَةٌ - ایک دوسرے سے

محبت کرنا۔

تَوَامِقُ الرَّجُلَانِ : ہاتھ محبت کرنا۔

تَوَمَّقَةٌ - دوستی کرنا۔

الْوَمِيقُ و الْمَوَمِيقُ : محبوب۔

الْوَمِئِكَةُ - قرعنی و کشادگی۔

وَمِهَةٌ مَوَمَةٌ و مَهَا التَّهَارُ : دن کا سخت گرم ہونا۔

تَوَمَّنَ الرَّجُلُ : بہت اولاد والا ہونا۔

وَمُنَى تَوَمَّنَةُ بِالشَّيْءِ : لے جانا۔

اسْتَوَمَّنَى عَلَيْهِ : غالب ہونا (مانند اسْتَوَلَى عَلَيْهِ)

الْمَوَمَّاةُ و الْمَوَمَّاءُ - بیابان جُ الْمَوَامِي -

الْوَنُ - کمزوری - چنگ کہ جس کو انگلیوں سے

پچاتے ہیں (دخبل)

وَنَبَةٌ - جھڑکنا - سرزنش کرنا۔

الْوَنُجُ - ایک قسم کا ہریڈ - (دخبل)

وَأَنْحَهُ مَوَامِحَةً - موافقت کرنا۔

وَنَمَّ يَنْمُ و نَمًا و نَيْمًا الذَّبَابُ : کبھی کا بیٹ

کرنا۔

الْوَنَمَةُ و الْوَيْنِمُ - کبھی کی بیٹ۔

وَالْيُ يَنْبِي و وَالْيُ يَنْبِي و نَيْبًا و نَيْبًا و نَيْبًا و نَيْبًا

و نَيْبَةً و نَيْبَةً و نَيْبٌ - سست ہونا - کمزور ہونا - ٹھکانا۔

صفت و ان مؤنث و انبئة - هُ - چھوڑنا - عَيْنٌ

كَذَا : مہمل چھوڑنا - الْكَيْمُ : سینہ -

السَّحَابَةُ : برساتا - کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَنْبِي

يَفْعَلُ كَذَا" فلاں ہمیشہ ایسا کرتا رہا۔

وَالْيُ تَوَيْنِيَّةٌ - عمل میں سستی کرنا۔

أَوْلَى الْإِنْسَانِ الرَّجُلُ : ٹھکانا - کمزور کرنا۔

تَوَانِي تَوَانِيَا فِي حَاجِبِهِ: سُتِ يٰ كَرْنَا۔
کوتاہی کرنا۔ اہتمام نہ کرنا۔

الْوَانِيَّةُ سُتِي۔
إِعْرَاقٌ وَنَاةٌ وَأَنَاةٌ وَأَيْبَةٌ: سُتِ حَرَكَاتِ دَالِي عَمُورَتِ۔

الْوَانِيَّةُ عَقْلٌ كِزْمُورِي۔
الْوَانِيَّةُ وَالْوَانِيَّةُ: مَرَادِيْدٌ مَوْتِي۔

الْوَانِي: فَا- كَمُورِدِنِ وَاللَا- نَسِيْمٌ وَإِنْ نِزْمِ نِزْمِ طَلْعِ دَالِي هُوَا۔

الْوَانِي: مَوْتِي۔
الْمِيْنَاءُ وَالْمِيْنَاءُ: بِنْدِرْگَاهُ۔ اُوْر "مِيْنَاءُ السَّاعَةِ" كَمُزِي كَيْ ذَاكِلِ كُو كَتِي هِي۔

وَهَبَّ يَهَبُّ وَهَبًا وَوَهَبًا وَهَبَةً الْمَالِ فُلَانًا وَفُلَانًا: هَبَّ كَرْنَا (بِحُضُوْرِنَا) كَمَا هَبَّ كِي وَهَبَّ دُو مَفْعُوْلِ كِي طَرْفِ مَتَعَدِي نَفْسِهِ نَسِيْبِ هُوَا مَكْرَاسِ وَقْتِ كِي جَعَلْنَا كِي مَعْنَى كُو مَتَعَمَّنِ (هُوَ) اُوْر كَمَا جَاتَا هَبَّ "هَبَبِي فَعَلْتُ كَذَا" اَفْرَضِ كَرُو كِي مِيْن لِي اِيْيَا كِيَا (هَبَّ اِنِّي فَعَلْتُ كَذَا. نَسِيْبِ كَمَا جَاتَا) اُوْر اَسِ مَعْنَى مِيْن صَرْفِ اَمْرِي كَا صِيْدِ مَسْتَعْلٍ هَبَّ (وَوَهَبَّ يَهَبُّ) التَّوَجُّلُ دَاوُو دِهَشِ مِيْن غَايِبِ هُوَا۔

وَأَهَبْتُ مَوْأَهَبَةً: هَبَّ كَرْنَا مِيْن مِتَابِلِهِ كَرْنَا۔
أَوْهَبْتُ اِيْنهَا اَلْأَمْرَ لِفُلَانٍ: تِيَارِ كَرْنَا۔
الشَّيْءُ لِفُلَانٍ: لِيْنِي كِي لِيْهِ عَمَلٌ هُوَا۔
الشَّيْءُ لُهُ: زِيَادَةٌ وَبِكَمْرَتِ هُوَا يِهَا مِ تَكِ كِي اَسِي مِيْن سِي هَبَّ كَرِي۔ اُوْر كَمَا جَاتَا هَبَّ "أَوْهَبْتُ لِكَذَا" لِيْنِي مِيْن اَسِي بِرَقَادِرِ هُوَا۔

تَوَاهَبَ الْقَوْمُ: بَعْضُ كَالْبَعْضِ كُو يِهَبَّ كَرْنَا۔
اِتَّهَبَ اِيْتِهَابًا اِلْهِيْبَةً: هَبَّ كَرْنَا۔
اِسْتَوْهَبَ اِسْتِهَابًا اِلْهِيْبَةً: هَبَّ كَرْنَا۔
فُلَانًا وَمِنْ فُلَانٍ اِلْهِيْبَةً: هَبَّ كَرْنَا كِي دِرْخَاوَسْتِ كَرْنَا۔

الْهِيْبَةُ مِمَّا: كَسِي كُو كَسِي بِرِزْمِ كَالْبَعْضِ عَمَلِ كِي مَالِكِ بِيَانَا۔ كِي هُوِي كِي رِيْزْمِ حِيْبَاتِ۔

الْوَهَابُ وَالْوَهَابَةُ وَالْوَهْوَبُ: مِمَّا بَسْتِ هَبَّ كَرْنَا وَالَا۔

الْمَوْهَبُ وَالْمَوْهَبَةُ: وَهَبَّ كَامِ مِمَّا هَبَّ كَرْنَا۔
الْمَوْهَبَةُ وَالْمَوْهَبَةُ: عَطِيَّةٌ هَبَّ كَرْنَا۔

يَهْوَسَانَا تَالَابٌ مِيْسِي "هُوَ اَشْهَى مِنْ مَاءٍ مَوْهَبِيَّةٍ عَلِي حَمْرٍ" وَهُ تَالَابُ كِي پَانِي سِي شَرَابِ كَا زِيَادَةُ رَاغِبِ هَبَّ جِ مَوْأَهَبِ الْمَوْهَبَةُ پَهَاؤُ كَا گُرْخَا جِسِ مِيْن پَانِي مَجْعُ هُوَا جَائِي۔

وَهَتْ يَهَبْتُ وَهْنًا الشَّيْءُ: دِيَابَا۔ تَحْتِ رُوْنَدَا۔
أَوْهَتْ اللَّحْمُ: كُو سْتِ كَا دِيُو دَارِ هُوَا۔

الْوَهْنَةُ: پَسْتِ زَمِيْنِ جِ وَهَتْ۔
لَحْمٌ مَوْهَبٌ: دِيُو دَارِ كُو شَوْتِ۔

وَهَتْ يَهَبْتُ وَهْنًا وَهْنَةً فِي الشَّيْءِ: مَشْغُوْلٌ هُوَا۔ الشَّيْءُ: تَحْتِ رُوْنَدَا۔

تَوَهَّتْ تَوْهَتْ فِي الْأَمْرِ: خُوْبِ عَمُورِ كَرْنَا۔
وَهَجَّتْ نَهَجٌ وَهَجًا وَوَهِيْجًا وَهَجَانًا

النَّازِ اَوِ الشَّمْسُ: اَكْجِ بَزْرُكَا۔ اَقْتَابُ رُوْشِنِ هُوَا۔

أَوْهَجَ النَّازُ: اَكْجِ بَزْرُكَا۔
تَوَهَّجَ: بَزْرُكَا۔ اَلْحَرُّ: كَرْمِي تَحْتِ هُوَا۔

يَوْمُنَا: تَحْتِ كَرْمِي وَالَا هُوَا۔ اَلْحَوْهَرُ: چِي كَلْمَا۔
زَايْحَةُ الطَّيْبِ: بَزْرُكَا۔ خُوْشُوْبِي پِيْلِيَا۔

الْوَهْجُ: اَكْجِ كِي بَزْرُكَا يَا اَقْتَابِ كِي چِي كِي۔
اَقْتَابِ كِي يَا اَكْجِ كِي كَرْمِي هُو دُوْرِ سِي عَمُوسِ هُوَا

وَهَجَ الطَّيْبُ: خُوْشُوْبِي كُو بَزْرُكَا۔
يَوْمٌ وَهَجَانٌ وَوَهْجٌ: تَحْتِ كَرْمِ دِنِ۔

الْوَهَاجُ: تَحْتِ بَزْرُكِي وَالَا۔ نَجْمٌ وَهَاجٌ رُوْشِنِ سِتَارِهِ۔ اُوْر اِيْسَا يِي سِرَاجٌ وَهَاجٌ۔

وَهْدَلَهُ الْفِرَاشُ: بِيْجُوْنَا بِيْجَانَا۔
تَوَهَّدَ الْفِرَاشُ: بِيْجَانَا۔

الْوَهْدُ: پَسْتِ زَمِيْنِ جِ اَوْهَدُوْ وَهْدَانِ اُوْر كَمَا جَاتَا هَبَّ "مَكَانٌ وَهْدٌ" پَسْتِ كَلْمِ۔

الْوَهْدَةُ: پَسْتِ زَمِيْنِ۔ كُرْمَانِ جِ وَهَادُوْ وَهْدُ۔
وَهْرَةٌ يَهْوَةٌ وَهْرًا وَوَهْرَةٌ: تَحْتِ مَشْكَلِ مِيْن بِيْجَانَا۔

تَوَهَّرَ اللَّيْلُ اَوِ الشَّتَاءُ: رَاْتِ يَا سَرْدِي كَا اَكْثَرِ حَصْرِ كُرْجَانَا۔ هُو فِي الْكَلَامِ: كِنْتَكُو مِيْن اِيْسِي چِيْزِ كِي طَرْفِ مَجْبُوْر كَرْنَا جِسِ سِي جِيْرَانِي هُوَا۔

اِسْتَوْهَرُوا اِسْتِهَرُوا اِسْتِهَابًا اِيْهِ: بِيْجِيْنِ كَرْنَا۔
الْوَهْرُ: دِهْشِ كَا زَمِيْنِ پَر اَسِ طَرْحِ تِيْرِي سِي پَر نَانِ سِي سَخَارَاتِ كِي مَانِدَا اَضْطِرَابِ ظَاهِرِ هُوَا۔

لَهَبٌ وَاهِرٌ: بَزْرُكَا دَارِ شَعْلِ۔

الْوَهْرَةُ: اِيْسِي مَشْكَلِ مِيْن پِيْجَانَا سِي سِي رِهَانِي نِه هُوَا۔

الْوَهْرَانُ: دُوْرِنِي وَالَا۔
وَهْرَةٌ يَهْوَةٌ وَهْرًا: رُوْنَدَا۔ ہاتھ سے مارنا یا ہٹانا۔ وَهْرَةٌ عَلِي كَذَا: بَرَاگِيْتِي كَرْنَا۔ وَهْرُ الشَّيْءِ: تُوْرْنَا۔ الْقَمْلَةُ بَيْنَ اَصَابِعِهِ: جُوْنِ كُو اَكْلِيُو كِي دِرْمِيَانِ مَارُوْ اَتَانَا۔

وَهْرَةٌ: بُو جَمَلِ كَرْنَا۔
تَوَهَّرَ: تَحْتِ رُوْنَدَا۔ بُو جَمَلِ چَالِ سِي چَلْنَا۔

تَوَهَّرَ خَلْفَ فُلَانٍ: كُوْرْنَا اُوْر كَمَا جَاتَا هَبَّ "مَمْرٌ يَتَوَهَّرُ" وَهُ كُرْزَا اَسِ حَالِ مِيْن كِي زَمِيْنِ كُو تَحْتِ دِيَابَا هُوَا چَلْتَا هَبَّ۔

الْوَهْرُ مِمَّا: پَسْتِ قَدِ مَضْبُوْبِ دِنِ وَالَا۔
الْوَهَارَةُ: شَرْمِيْلِي عَمُورَتِ كِي چَالِ۔

الْاَوْهَرُ: اِچْھِي چَالِ وَالَا۔
الْمَوْهَرُ وَالْمَوْهَرُ: تَحْتِ رُوْنَدَانِي وَالَا۔

وَهَسَّ يَهِسُّ وَهْسًا الشَّيْءُ: تُوْرْنَا۔ تَحْتِ رُوْنَدَا۔ التَّوَجُّلُ: تِيْرِ چَلْنَا۔ هِي الْأَمْرُ: چِيْلِهِ كَرْنَا۔ عَلِي قَوْمِهِ: ظَلَمِ كَرْنَا۔ دِسْتِ دِرَازِي كَرْنَا۔

وَأَهَسَّ مَوْأَهَسَةً: تِيْرِ چَلْنَا۔ هَبَّ: جَمَلُوْ كَرْنَا۔
تَوَهَّسَّ وَتَوَاهَسَّ: بُو جَمَلِ چَالِ چَلْنَا۔ تِيْرِ چَلْنَا۔

تَوَهَّسَّتِ الْاِبِلُ: اِنْدُونِ كَا اِچْھِي چَالِ چَلْنَا اُوْر كَمَا جَاتَا هَبَّ "تَوَهَّسَّ الْأَرْضُ فِيْنِ مَشِيْبِهِ" اَسِ لِي اِيْنِي چَالِ مِيْن زَمِيْنِ كُو بَسْتِ دِيَابَا۔

الْوَهْسُ مِمَّا: بَرَانِي۔ چَمَلِ خُوْرِي۔
الْوَهْسَةُ: عَامِ رَاَسْتِ۔

الْوَهَّاسُ: اِسْمُ مَالِغٍ شِيْرِ۔
وَهَّصَّ يَهْصُ وَهْصًا الشَّيْءُ الرَّخْوُ: نِزْمِ چِيْزِ كُو تُوْرْنَا۔ تَحْتِ رُوْنَدَا۔ تَحْتِ سِي چِيْكَنَا۔ زَمِيْنِ پَر

چِيْكَنَا۔ التَّوَاهَسُّ: سِرْچِيْلِ رِيْنَا۔ الْحَيَوَانُ: جَانُوْر كُو خُصِي كَرْنَا۔

الْوَهْصَةُ وَهْصٌ كَا مِمَّا مَرَّةً: پَسْتِ زَمِيْنِ۔
الْوَهَّاصُ: بِيَادِيْنِي وَالَا۔

الْمَوْهَصُ: پَسْتِ زَمِيْنِ۔ رُوْنَدَانِي يَا تُوْرْنِي كِي كَلْمِ جِ مَوْأَهْصِ۔

الْمَوْهَوْصُ وَالْمَوْهَوْصُ الْبَخْلِيُّ: كَمَلِي دِنِ وَالَا۔

الْوَهْمِيُّ - وہم والا۔
 الشَّهْمَةُ وَالشَّهْمَةُ - اِتِّهَامٌ كَالِاسْمِ - تهمت۔
 شَكٌّ مِنْ تَهْمٍ وَتَهْمَاتٌ -
 التَّهْمِيمُ - جس پر تهمت لگائی جائے۔
 الْمَوْهُومُ مِنَ الْأَشْيَاءِ - وہم کیا ہوا۔ تصور کیا ہوا۔ خیال کیا ہوا۔
 وَهْنٌ يَهْنُهُ وَهْنًا وَأَوْهَنُهُ - کمزور کرنا۔ وَهْنٌ وَأَوْهَنُ الرَّجُلُ - آدمی رات میں داخل ہوتا۔ وَهْنُهُ - کمزور کرنا۔
 وَهْنٌ وَوَهْنٌ يَهْنُ وَوَهْنٌ يَوْهِنُ وَهْنًا وَوَهْنًا وَوَهْنٌ يَوْهِنُ وَهْنًا - کام میں سست ہونا۔ کمزور ہونا۔
 تَوَهَّنَ التَّبَعِيُّ لِيُنَا - الظَّائِرُ - پرعدہ کا زیادہ کھانسنے سے اڑنے لگانا۔
 الْوَهْنُ - وہم۔ - مِنَ الرَّجَالِ أَوِ الْإِبِلِ - موتا پست قد - مِنَ اللَّيْلِ - آدمی رات یا اس کے کچھ بعد - وَالْوَهْنُ - کام میں سستی۔ بدن میں کمزوری۔
 الْوَهْنُ - کمزور۔
 الْوَاهِنُ - قَا - کمزور۔ کندھے کی ایک رگ کا نام۔
 الْوَاهِنَةُ - واہن کا مؤنث۔ کمزوری۔ بازو۔ گردن کا مرہ۔ ریاچ جو بڑھاپے کے وقت کندھوں میں یا بازو میں یا ان دو رگوں میں جن کا نام اخذعان ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے نیچے کی ہلی۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَشَدِيدٌ الْوَاهِنَتَيْنِ" وہ مضبوط سینہ والا ہے۔
 الْوَهْنَانَةُ مِنَ التَّبَسُّؤِ - تازو نعمت کی وجہ سے کام میں سستی کرنے والی عورت۔
 الْمَوْهِنُ مِنَ اللَّيْلِ - آدمی رات یا اس کے کچھ بعد۔
 الْمَوْهُونُ - کمزور۔ مؤنث مَوْهُونَةٌ۔
 وَهْوَةٌ وَهْوَةٌ فِي صَدْرِهِ - غم یا گھبراہٹ کی وجہ سے بڑبڑانا - الْأَسْدُ فِي زَيْبِهِ - شیر کا دھاڑنا۔ صفت وَهْوَةٌ۔
 الْوَهْوَاءُ وَالْوَهْوَاءُ مِنَ الْخَيْلِ - تیز و پست رَجُلٌ وَهْوَاءٌ - بڑول مرد۔
 وَهْيٌ وَوَهْيٌ يَهْيُ وَهْيًا النَّوْبُ - کپڑے کا پھٹنا - الشَّيْءُ - بندش ڈھلی ہونا۔ بوسیدہ ہونا۔

چیز کی طرف وہم جانا جس کا ارادہ نہ ہو۔
 وَهْلٌ يَوْهَلُ وَهْلًا - کمزور ہونا۔ گھبرانا۔ صفت وَهْلٌ - وَهْلٌ إِلَيْهِ - فریاد طلب کرنا۔ پناہ لینا - فِي الْأَمْرِ وَعَنْهُ - غلطی کرنا۔ بھولنا۔
 وَهْلَةٌ - خوف دلانا۔ گھبرانا۔
 تَوَهَّلَهُ - غلطی میں ڈالنا۔
 الْوَهْلُ وَالْوَهْلَةُ - گھبراہٹ۔ خوف۔ ڈر۔ کہا جاتا ہے لَقِيْنَهُ أَوْهَلًا وَهْلَةً أَوْ وَهْلَةً أَوْ وَهْلَةً فِي سَنَةِ اس سے سب سے پہلے ملاقات کی۔
 وَهْمٌ يَهْمُ وَهْمًا فِي الشَّيْءِ - ایسی چیز کی طرف وہم جانا جس کا ارادہ نہ ہو - الشَّيْءُ - خیال کرنا۔ تصور کرنا۔
 وَهْمٌ يَوْهَمُ وَهْمًا فِي الْحِسَابِ - غلط کرنا۔ بھولنا۔
 وَهْمَةٌ - وہم میں ڈالنا۔
 أَوْهَمَ إِلَيْهَا - وہم میں پڑنا - هُ - وہم میں ڈالنا - فَلَا تَأْكُذَا - تهمت لگانا۔ بدگمانی کرنا - كُذًّا - مِنَ الْحِسَابِ - غلطی کرنا - الشَّيْءُ - کل جھوڑ دینا۔
 اِتِّهَمَ - تمام میں داخل ہونا۔ اِتِّهَمَهُ بِكُذَّا - تهمت لگانا۔ بدگمانی کرنا یا یہ عوام کی بول چال میں ہے فصيح اِتِّهَمَهُ -
 اِتِّهَمَهُ بِكُذَّا - تهمت لگانا۔ بدگمانی کرنا - هُ - فِينِ قَوْلِهِ - سچائی میں شک کرنا۔ اِتِّهَمَ الرَّجُلُ - بدنام ہونا۔ تسم ہونا۔
 تَوَهَّمَ الْأَمْرَ - خیال کرنا۔ گمان کرنا۔ تَوَهَّمَ فِتْنَةَ الْخَيْزِرِ - کسی کے اندر خیر کا اندازہ کرنا۔
 الْوَهْمُ - وہم۔ - دِلٌ مِيں جُو خَطَرٌ كَزَّرَ - جِجْ أَوْهَامٌ - قوت و عہد پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ قوت و عہد اس حسِ باطنی کو کہتے ہیں جس کا کام معانی جزئیہ کا ادراک کرنا ہے جن کا تعلق محسوسات سے ہے جیسے زید کی شجاعت۔ سخاوت۔ بکری کی بڑولی۔ ہل کی محبت وغیرہ - كَشَاوَهُ رَاسْتًا - بڑا مرد۔ مضبوط موٹا سدھا ہوا اونٹ۔ جِجْ أَوْهَامٌ وَوَهْمٌ وَوَهْمٌ - کہا جاتا ہے "لَا وَهْمٌ مِنْ كُذَّا" اس سے کوئی چارہ نہیں۔
 الْوَهْمَةُ - موٹی اونٹنی۔
 الْوَاهِمَةُ - قوت و عہد۔

الْوَهْمَةُ - پست زمین۔
 وَهْطٌ يَهْطُهُ وَهْطًا - تَوْرَتًا - روندنا۔ تیزہ مارنا۔ مارنا - الرَّجُلُ - کمزور ہونا۔
 أَوْهَظَهُ - کمزور کرنا۔ مار کرست کرنا۔ بچھاڑنا۔
 مَصِيبٌ مِيں ذَالْنَا - أَوْهَظَ جَنَاحَ الظَّائِرِ - پرعدہ کا بازو توڑ دینا۔
 تَوَهَّظَ - لوٹنا۔ روندنا جانا - الْفَوَازِشُ - بچھانا - فِي التَّلِيْنِ - نرم مٹی میں غائب ہونا۔
 الْوَهْطُ - ہم۔ لاغری۔ جماعت جِجْ أَوْهَاطٌ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ أَوْهَاطٌ" ان کے درمیان جھگڑا اور شور وغل ہے۔
 الْوَهْظَةُ - پست زمین جِجْ وَهْطٌ وَوَهَاطٌ - وَهْفٌ يَهْفُ وَهْفًا وَوَهْفًا إِلَى كُذَّا - قَرِيبٌ هُوَا - التَّبَاتُ - سبز اور پتے والا ہونا - لَهُ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا - سامنے آنا۔ ظاہر ہونا - وَوَهْفًا وَوَهَافَةً النَّصْرَانِيُّ - گرجا کی خدمت کے لیے مستعد ہونا۔
 أَوْهَفَ إِلَيْهَا الشَّيْءَ إِلَى كُذَّا - قَرِيبٌ هُوَا - أَوْهَفَ لَهُ الشَّيْءَ - سامنے آنا۔ ظاہر ہونا۔
 الْوَاهِفُ - قَا - گرجا کا خادم یا منتظم۔
 الْوَهَافَةُ وَالْوَهْفِيَّةُ - گرجا کی خدمت۔
 وَهَقٌ يَهْقُ وَهَقًا الدَّابَّةُ - جانور کی گردن میں رستی ڈالنا - هُ عَنْ كُذَّا - روکنا۔ باز رکھنا۔ کہا جاتا ہے "وَالْقَلْبُ عِنْدَكُمْ مَوْهُقٌ" دل تم لوگوں کے پاس الکا ہوا ہے۔
 وَهَقٌ مَوْهَقَةٌ التَّبَعِيُّ التَّبَعِيُّ - چلنے میں گردن لہی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔
 أَوْهَقَ الدَّابَّةُ - جانور کی گردن میں رستی ڈالنا۔
 تَوَهَّقَ الْحَصَى - نکلریوں کا دھوپ سے گرم ہونا - فَلَا تَأْفِي الْكَلَامَ - جھگڑوں میں ایسی چیز کی طرف مجبور کرنا جس سے حیرانی ہو۔
 تَوَاهَقَ الْقَوْمَ فِي الْأَمْرِ - برابر ہونا یا مقابلہ کرنا۔ تَوَاهَقَتِ الْإِبِلُ - چلنے میں گردن لہی کر کے مقابلہ کرنا - السَّاقِيَانِ - مقابلہ کرنا۔
 الْوَهْقُ الْوَهْقُ - رستی کہ جس کے ایک طرف پھندا ہوتا ہے اور جس کو جانور کی گردن میں ڈالتے ہیں جِجْ أَوْهَاقٌ -
 وَهْلٌ يَهْلُ وَيَوْهَلُ وَهْلًا إِلَى الشَّيْءِ - ایسی

تَوَائِلُ الزَّجْلَانِ : ایک دوسرے کے لیے ویل ویل کہنا۔ کہا جاتا ہے "هُمَا يَتَوَائِلَانِ"۔

الْوَيْلُ : شرو برائی کا نزل۔ ہلاکت۔ جہنم کی ایک وادی کا نام، کہا جاتا ہے "وَيْلُهُ وَوَيْلُكَ وَوَيْلِي وَوَيْلُ لَزِيدٍ وَوَيْلٌ لَّهُ" نصب اخبار فضل کی بنا پر رفع ابتدا کی وجہ سے جبکہ اضافت نہ ہو اور اضافت کی صورت میں صرف نصب ہی ہو گا۔ اس وجہ سے کہ اگر رفع دیں گے تو بلا خبر کے رہ جائے گا۔ کہا جاتا ہے "وَيْلٌ وَأَيْلٌ وَوَيْلٌ" و"وَيْلٌ" یعنی بہت زیادہ ویل۔

الْوَيْلَةُ : بلا سوائی ج و نِلاَت۔
وَيْلٌ : یہ مرکب کلمہ ہے اس کی اصل "وَيْلٌ" لاجہ" ہے جسے بد دعا کے ٹکڑے میں تعجب اور استہسان کے موقع پر استعمال ہونے لگا مانند "فَاتَلَهُ اللَّهُ" اور "لَا أَبَ لَكَ" کے۔ کہا جاتا ہے۔ "زَجَلٌ وَيْلٌ"۔

وَيْلٌ : یہ مرکب کلمہ ہے اس کی اصل "وَيْلٌ" لاجہ" ہے جسے بد دعا کے ٹکڑے میں تعجب اور استہسان کے موقع پر استعمال ہونے لگا مانند "فَاتَلَهُ اللَّهُ" اور "لَا أَبَ لَكَ" کے۔ کہا جاتا ہے۔ "زَجَلٌ وَيْلٌ"۔

الْوَيْلَةُ : حسرت اور بقول بعض چغل خوری۔
الْوَيْلُ : کالا گور۔ عیب۔
الْوَيْلَةُ : کالا شک انگور۔
وَيْلٌ وَوَيْلٌ وَوَيْلٌ : کلمہ تحریف و اغراء ہے۔ مفرد جمع مذکر مؤنث سب کیلئے ہی آتا ہے۔

اضافت کے ساتھ۔ و وَيْبٌ زَيْدٌ فتح اور اضافت کے ساتھ۔ و وَيْبٌ فَلَانٌ کسرہ اور رفع کے ساتھ۔ اور معنی ہر صورت میں ویل کے ہیں۔ یعنی اللہ اس کے لیے ویل لازم کرے اور ویب کا استعمال مقام تعجب میں بھی ہوتا ہے کہا جاتا ہے "وَيْبًا لِهَذَا" یعنی اس کیلئے تعجب ہے۔

الْوَيْبَةُ : بائیس یا چوبیس بد کا ایک بیان ج و نِيات (مولدۃ) الْوَيْبَةُ : مصیبت۔ بلا۔ رسوائی۔
وَيْبٌ : کلمہ ترحم و توجع۔ اور کبھی نوح اور تعجب کے موقع پر آتا ہے اور کہا گیا ہے کہ "وَيْلٌ" کے معنی میں ہے تم کہتے ہو "وَيْبٌ لَزَيْدٍ وَوَيْبٌ لَزَيْدٍ وَوَيْبَةٌ" رفع ابتدا کی وجہ سے ہے اور نصب اخبار فضل کی بنا پر۔ گویا کہ تم کہتے ہو الزَّوْبَةُ لِلَّهِ وَوَيْبٌ الْوَاخِ وَالْوَاخَةُ : ریگستان میں سرسبز زمین ج الوَاحَات۔

وَيْبٌ : یعنی وَيْبٌ وَوَيْبٌ : یعنی وَيْبٌ وَوَيْبٌ اور اس کے احکام بھی وَيْبٌ کے احکام جیسے ہیں۔
الْوَيْبُ : محتاجی۔ ارادہ کی ہوئی چیز نہ چاہی ہوئی چیز۔
وَيْبٌ : کلمہ ہے جو وی اور کاف خطاب سے مرکب ہے۔

وَيْلٌ تَوَيْلًا فَلَانًا وَوَيْبٌ : کسی کے لیے بہت ویل کہنا۔
تَوَيْلٌ : ویل کو پکارنا۔ یا ویلی کہنا۔

کمزور ہونا — الْحَائِظُ : دیوار کرنے کے قریب ہونا۔ گرنا — الزَّجْلُ : بیوقوف ہونا — الشَّحَابُ : بادل کا موسلا دھار برنا۔

أَوْهَى إِنْهَاءَ الْفُلَانِ : کمزور کرنا۔ ست کر دینا۔ کہا جاتا ہے "مَضْرِبُهُمَا أَوْهَى نِدَاهُ" اس نے اسے مارا اور اس کے ہاتھ کو توڑ دیا۔


الْوَهْيُ : ہمہ۔ شگاف۔ بچھن ج و هِي وَوَهْيَةٌ۔
الْوَهْيَةُ : اسم مرۃ۔ شگاف۔

الْوَاهِي : اسم فاعل ج وَاهُونَ وَوَاهَةٌ مَوْنُثٌ وَاهِيَةٌ۔

الْوَهِيَّةُ : موتی ذبح کرنے کے لیے مونا دانٹ۔
الْأَوْهِيَّةُ : بھائی کی چوٹی سے وادی تک کا فاصلہ۔
وَاهٍ وَوَاهٍ وَوَاهًا وَوَاهًا لَهُ وَبِهِ : چیز کی خوبی کے لیے کلمہ تعجب گویا تم کہتے ہو "أَعْجَبَ بِهِ مَا أَظْلَمْتَهُ" اور اسرار افسوس کے لیے بھی آتا ہے جیسے "وَاهَا عَلَى مَا فَاتَتْ"۔

وَيْلٌ : کلمہ تعجب جیسے وَيْلٌ لَزَيْدٍ یعنی زید سے مجھے تعجب ہے اور ڈانٹ ڈیٹ کیلئے بھی آتا ہے اور وَيْلٌ سے کناہہ ہوتا ہے تم کہتے ہو "وَيْلٌكَ إِسْتَمِعْ قَوْلِي" تمہارا ہوا میری بات پر کان لگا۔ اور وھمکی کے لیے بھی مستعمل ہے جیسے وَيْلٌ يَلِكُ الْفُلَانُ؟

وَيْبٌ : یعنی ویل۔ کہا جاتا ہے "وَيْبُكَ وَوَيْبُكَ لَكَ وَوَيْبٌ لَزَيْدٍ وَوَيْبَةٌ لَهُ وَوَيْبٌ لَهُ وَوَيْبُهُ وَوَيْبٌ غَيْرُهُ" کسرہ اور ضمیر و اسم ظاہر کی طرف



۵- تین صورتوں میں مستعمل ہے۔

(۱) ضمیر مکتب ہے۔ منصوباً و مجروراً۔ جیسے فُلَانٌ لَدُنْ حَاجِبِهِ وَهُوَ يَخَافُ زَوْجَهُ اس سے اس کے ساتھی نے ہام ہمت کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ کہو یا پادہ ساکنہ کے بعد ہوتی ہو تو مکسور ہوتی ہے بشرطیکہ اس کے بعد تلف نہ ہو اور اس کے علاوہ معلوم ہوتی ہے۔

(۲) حرف نسبت جیسے اِيَّاهُ كَيْفَا۔

(۳) حَافِئٌ سَكَنَ۔ اور یہ حرکت یا حرف کے ظاہر کرنے کے لیے لاحق ہوتی ہے جیسے حَافِئَةٌ وَحَافِئَةٌ وَوَأَزْدَانُهُ۔

ہا اس کی بھی تین صورتیں ہیں۔

(۱) اسم فعل جیسے خَلَدَ۔ جیسے "هَذَا الْكِتَابُ" کتاب لو۔ اس کے تلف کو مردہ کرنا بھی جائز ہے اور یہ مردود و مقصورہ کاف خطاب اور بغیر خطاب کے دونوں طرح مستعمل ہیں۔ اور مردود ہونے کی صورت میں کاف کو حذف کرنا بھی جائز ہے اس طرح پر کہ ہزوی گردان کاف کی گردان کی طرح کریں۔ اور کہیں حَافِئٌ کر کے لئے۔ حَافِئٌ مَوْتٌ کے لئے وَهَاتُومٌ جمع مذکر کے لئے۔ حَافِئٌ مَاتَ تثنیہ مذکر و مَوْتٌ کے لیے حَافِئٌ جمع مَوْتٌ کے لئے۔

(۲) مَوْتٌ کی ضمیر منصوب جیسے حَضَرْتَهَا اور مجرور جیسے كَيْفَا يَهْدِيهِ۔ ضمیر ہے اور الف علامت تانیہ۔

(۳) ضمیر کے لیے اور اس کی چار صورتیں ہیں۔

(الف) اشارہ سے پہلے جیسے هَذَا وَهَذَا۔

(ب) ضمیر مرفوع جیسے "هَذَا لَكُمْ هُوَ لَا يَـ"۔

(ج) اِنِّیْ کی صفت ندا کی صورت میں جیسے یا

اِيَّاهَا الرَّجُلُ۔

(د) ضم کی صورت میں لفظ اللہ سے پہلے حرف

تم کو حذف کے وقت جیسے "هَذَا لِلَّهِ"

جہاں جہاں اسم صوت ہے جس سے آؤٹ کو چارہ

کھلانے کیلئے ہلاتے ہیں۔

هَآءُهَا لَوَثْمُونَ كَوْذَابُ عِيْ كِي اَوَاذِ۔

هَآءُهَا وَهَآءُهَا وَهَآءُهَا۔ لفظ مار کر نہ صلت

هَآءُهَا وَهَآءُهَا۔ بالابیل، اونٹ کو چارہ کے

لیے بلانا اور جہاں جہاں کتا یا ڈانٹا اور هَآءُهَا کتا اور

اس الہی ہے۔

جَآنٌ هَآءُهَا هَآءُهَا۔ بہت ضمیر مار کر ہنسنے والی لڑکی۔

هُوَ لَا يَـ حَاكِمٌ حَمِيرٌ اَوْ رَاوِلَا اِسْمٌ اِشَارَةٌ۔

هَبْ۔ وَهَبْ سے امر کا سینہ ہے۔ اور کہا جاتا

ہے "هَتَيْنِ فَعَلْتُ" فرض کر کہ میں نے کیا اور یہ

کہہ امر کہ ہے جو دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔

هَبْتُ (ن) هَبْتُهَا وَهَبْتُهَا وَهَبْتُهَا الزَّيْبُ: ہوا کا

چلنا۔ هَبْتُ الرَّجُلَ مِنَ التَّوْبَمِ: نیند سے بیدار ہونا

۔ التَّخْبُومُ: ستارہ کا طلوع ہونا۔

هَبْتُ (ض) هَبْتُهَا وَهَبْتُهَا وَهَبْتُهَا: چست

و تیز رفتار ہونا۔ هَبْتُ يَفْعَلُ كَذَا: وہ ایسا کرنے لگا۔

اور کہا جاتا ہے "مِنْ اَيْنِ هَبْتِ" تم کہاں سے

آئے۔ (ض) هَبْتُهَا وَهَبْتُهَا: الشَّيْفُ: گوارا کا بلنا

۔ فِي الْحَزْبِ: نکلت کھانا۔ هَبْتُ وَهَبْتُ

وَهَبْتُ الشَّيْفَ الشَّقِي: گوارا کا کسی چیز کو کھانا۔

هَبْتُ (س) هَبْتُهَا: مدت تک غائب رہنا۔ کہا جاتا

ہے "هَبْتُ فُلَانًا حَيْثَا نَمَّ قَدِيمًا" فلاں ایک مدت

تک غائب رہا پھر آگیا۔ "وَ اَيْنَ هَبْتِ عَتَا" تم ہم

سے کہاں غائب رہے؟

هَبْتُ نَهْبِيْنَا الْقَوْبُ: کپڑا بھاڑنا۔

أَهَبْتُ مِنْ نَزْوِمِهِ: نیند سے بیدار کرنا۔ أَهَبْتُ

الشَّيْفُ: گوارا کو بلانا۔ الزَّيْبُ: ہوا کا چلنا۔

نَهَبْتُ الْقَوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

أَهَبْتُ الشَّقِي: کھانا۔

اسْتَهَبْتُ الزَّيْبُ: ہوا کا چلنا۔

الغائب: ذرات جو دھوپ پڑنے پر روشن

دان وغیرہ میں معلوم ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے

"لَوْتُ هَبَاتٍ وَ هَبَّتْ وَأَهْبَابٌ" پارہ پارہ

شدرہ کپڑا۔

الهِبَةُ: هَبْتُ كَأَسْمِ مَرَّةٍ: صبح کی باقی ماندہ ایک

ساعت۔ زبانی کی ایک مدت۔ کہا جاتا ہے "وَأَهْبَابُ

هَبَّتْ" میں نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا۔ وَأَخَذْتُ

هَبَّةَ الشَّيْفِ" گوارا کے چلنے سے بچ۔

الهِبَةُ: هَبْتُ كَأَسْمِ لَوْحٍ: کپڑے کا ایک

تکڑا۔ گوارا کی کٹ اور اس کا بلنا۔ صبح کی باقی ماندہ

ساعت۔ زبانی کی ایک مدت۔

الهِبُوتُ وَالْهَبُوتَةُ وَالْهَبُوتُ: مِنَ الزَّيْبِ:

گردوغبار اُڑانے والی ہوا۔

الهِبَاتُ: بہت گردوغبار اُڑانے والی ہوا۔

الْمَهَبُ: ہوا چلنے کی جگہ۔ حِجْمَهَابٌ:

المهبط: کمزور۔ حِجْمَهَبُونَ: بیدار کرنے والا۔

هَبْتُهُ (ض) هَبْتُهُ مَارًا: کسی کا سر جھکا دینا۔

مرتبہ سے گھٹانا۔ ذلیل کرنا۔

هَبْتُهُ بِالشَّيْفِ: گوارا سے مارنا۔

هَبْتُ الرَّجُلَ: بزدل و ہوش باختہ ہونا۔

صفت هَبِيْتُ وَهَبْتُهُ وَهَبْتُ:

الهِبَةُ: هَبْتُ كَأَسْمِ مَرَّةٍ: کمزوری۔ کہا جاتا ہے

"فِي عَقْلِهِ هَبْتَةٌ" اس کی عقل کمزور ہے۔

الْمَهْبُوتُ: بہت تھکا۔

هَبْتَجَةٌ (ف) هَبْتَجًا بِالْقَصَا: لگا کر لاٹھی

سے مارنا۔

ہَبِج (س) ہَبِجًا وَجْهَ الرَّجُلِ: چہرے کا سوجنا۔ صفت ہَبِج۔
ہَبِجَةٌ: متورم کرنا۔

تَهَبُّج: سوجنا۔
المُهَبِّجُ: ست۔ بھری طبیعت کا۔

هَبْدٌ (ش) هَبْدًا وَتَهَبَّدُوا الْهَبْدَ الْهَبْدَ: اندرائن کا چل توڑنا اور پکانا اور چمنا۔ هَبْدٌ فَلَانًا: اندرائن کا چل کھانا۔

الْهَبْدُ وَالْهَبْدُ: اندرائن یا اس کا دانہ۔ واحد هَبْدَةٌ۔

الْمُهَبِّدُ: اندرائن کے دانے چنے والیاں۔
هَبْدٌ (ش) هَبْدًا وَهَابَدٌ وَاهْبَدٌ وَاهْبَدٌ الْفَرْسُ أَوْ الظَّائِرُ: گھوڑے کا تیز چلنا یا پرندہ کا تیز اڑنا۔

الْمُهَابِدَةُ: تیز رفتار اونٹنی جی ہوا بید۔

هَبْرٌ (ن) هَبْرًا اللَّحْمُ: گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹنا۔ کہا جاتا ہے "هَبْرَةٌ مِنْ الدَّعْمِ هَبْرَةٌ" اس نے اس کے لیے گوشت کے ٹکڑے کاٹے "وَهَبْرًا هُمْ بِالْمَشْيُوفِ" ہم نے ان کو تواروں سے کاٹ دیا۔

هَبْرٌ (س) هَبْرًا النَّجْوِيُّ: اونٹ کا زیادہ گوشت والا ہونا۔

أَهْبَرُ الرَّجُلُ: خوشنما ہونا۔

إِهْبَرُ النَّجْوِيُّ: اونٹ کا رپا چلا ہونا۔ فَلَانًا بِالسَّنْبِيغِ: گوار سے کھانا۔

الْهَبْرُ: مہ۔ بھیر بڑی کا گوشت۔ واحد هَبْرَةٌ۔
الْهَبْرُ: پست زمین یا ریت کا قطعہ جی هَبْرٌ وَهَبْرٌ وَالْهَبْرُ فِي الْقِرَاءَةِ: آیت پر وقف کرنا۔

الْهَبْرُ: انحرور کا بیج۔ کسان سے جو گریے۔
الْهَبْرُ: مِنَ الْجِمَالِ: بہت گوشت والا اونٹ۔ کہا جاتا ہے "يَبْرُ هَبْرًا دَبْرًا" بہت گوشت اور اون والا اونٹ۔ مؤنث هَبْرَةٌ۔

الْهَبْرُ: کٹا ہوا۔
الْهَبْرِيَّةُ: روٹی کے اڑنے والے روئیں۔ سر کی بھوسے۔ پائس اور نرکل سے جو بکھرے اور پھر جمع ہو کر جم جائے۔

الْهَبْرِيُّ: کڑی۔
الْهَبْرِيُّ: پست زمین کہ اس کے ارد گرد باندی

ہو جی هَبْرًا وَأَهْبَرَةٌ: اندام نملی۔ کہا جاتا ہے "هَبْرٌ هَبْرٌ وَهَبْرٌ" گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی ضرب۔

الْهَبْرِيَّةُ: بچو۔ أَبُو هَبْرِيَّةُ: مینڈک۔ أمْ هَبْرِيَّةُ: مینڈکی۔

الْأَهْبَرُ: بہت گوشت والا۔ مؤنث هَبْرَاءُ ج هَبْرٌ۔

الْمُهَابِرَةُ: اڑنے والے پر۔ سر کی بھوسے۔ رِيحٌ مِهَابِرَةٌ: تیز ہوا کی تیز چال۔

الْمُهَابِرُ: بہت ہلکا والا بندر۔ سَيْفٌ مِهَابِرٌ: کائے والی کھوار۔

الْمُهَبَّرُ: چھوٹی چوٹی۔ کھیتی کے گریے ہوئے خوشے۔

هَبْرٌ جِ الرَّجُلِ: ڈنگاٹے ہوئے چلنا۔ الْفَرْبُ: منقش کرنا۔

الْمُهَبْرُ جِ: تیز و سبک چال۔ مرد کھیر ڈنگا کر چلنے والا۔ منقش کپڑا۔ مؤنث ہر گوشت نمل۔ بوڑھا ہرن۔

الْمُهَبْرُ جِ: مؤنث ہر گوشت۔ الْمُهَبَّرُ جِ مِنَ الْأَوْقَاتِ: خراب شدہ تانت۔

الْمُهَبْرِيَّةُ: فارسیوں کا کنگن۔ نیا دینار۔ ہر خوبصورت و خوشنما چیز۔ عمدہ موزہ۔ خاص سونا۔ وَأُمُّ الْمُهَبْرِيَّةِ: بخارا۔

تَهَبَّرُ: تازہ انداز سے چلنا۔ الْمُهَبَّرُ فِي الْوَالِدِ وَالْمُهَبَّرُ فِي الْوَالِدِ: جنگل نمل۔

الْمُهَبَّرُ: نازک بدن لڑکی۔ مَنَابِتُ هَبْرٌ: کال جوانی حسابِ هَبْرٌ: کال جوان۔

الْمُهَبَّرُ كَعِ: بہت قد۔ الْمُهَبَّرُ كَعِ: اچھے بدن کا جوان۔

هَبْرٌ مِهَبْرَةٌ: بہت کھانا۔ بہت بولنا۔ هَبْرٌ (ش) هَبْرًا وَهَبْرًا وَهَبْرًا: مرنا۔ یا اچانک مرنا۔

الْمُهَبَّرُ: گل خیز۔ هَبْرٌ (ن) وَهَبْرٌ (س) هَبْرًا الرَّجُلُ: پورے ہاتھوں سے دوہنا۔ الشُّبِيُّ: جمع کرنا۔

بَحْنًا: لہجہ نالیہ۔ کہا جاتا ہے۔ فَلَانًا: تکلیف دہا مارنا۔

هَبْرٌ تَهَبَّرُ الْمَمَالُ: جمع کرنا۔ تَهَبَّرُ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ الشُّبِيُّ: جمع کرنا۔

کہا جاتا ہے "مَنْ جَرَّ تَهَبَّرُ لِحَالِهِ" وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کمانی کرنے کے لیے نکلا۔

إِهْبَتُش الْمَمَالُ: اکٹھا ہونا۔ الشُّبِيُّ: جمع کرنا۔ مؤنث هَبْرَةٌ: حاصل کرنا۔

الْمُهَابِشَةُ: جماعت۔ الْمُهَابِشَةُ وَالْمُهَابِشَةُ: مختلف قبیلوں کی جماعت۔ جی ہوا بھری و مہابشات المہابشات: کہا جاتا ہے۔

الْمُهَابِشُ: بہت کمانی کرنے والا۔ بہت جمع کرنے والا۔

هَبْرٌ (س) وَهَبْرٌ (ج) هَبْرًا وَهَبْرًا: پھر تازہ جلد ہونا۔ الْكَلْبُ: کتے کا گھبراہٹ کا حسیں ہونا۔ عَلِيُّ الشُّبِيُّ: حشاک ہو کر بے قرار ہونا۔ صفت هَبْرٌ۔

إِهْبَتُشُ فِي الْعَمَلِ: جلدی کرنا۔ فِي الْمَنْشِيِّ: تیز چلنا۔ وَالْمُهَبَّرُ بِالْمُهَبَّرِ: بہت زور سے بہنا۔

الْمُهَبَّرُ: تیز چال۔ کہا جاتا ہے شش المہببسی وہ تیز چال چلا۔

هَبْرَةٌ (ن) هَبْرًا مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ سے اُتارنا۔ الْمَرْوَةُ لَحْمَةٌ: تیار کی کا گوشت کو لا کر کرنا۔ فَلَانًا: مارنا۔ بَلَدٌ كَذَا: شہر میں داخل ہونا۔ الشُّبِيُّ: بازار میں بچھنا۔

الْوَابِيُّ: وادی میں اترنا۔ صفت هَبْرٌ۔ فَلَانًا الْبَلَدَ: شہر میں داخل ہونا۔ لَعْنُ السَّلْعَةِ وَمِنْ لَعْنَتِهَا: قیمت گھٹانا۔

هَبْرٌ (ش) هَبْرًا الشُّبِيُّ: قیمت گھٹانا۔ کہ ہوتا۔ فَلَانًا: خاکساری کرنا۔ فَلَانًا مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ سے اترنا۔ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرٍ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَبْرًا مِنَ الْعَشِيَّةِ" اس نے خوف کی وجہ سے خاکساری کی۔ "وَهَبْرًا الرَّحْلَانِ" اس کو زمانہ نے مفلوک الحال بنا دیا۔

هَبْرٌ الْعَيْلُ: بوری کو اونٹ پر درست کر کے رکھنا۔

أَهْبَطُ: اُتارنا۔ أَهْبَطُ الشُّبِيُّ: قیمت گھٹانا۔ تَهَبَّرُ مِنَ كَذَا: پیچھا اترنا۔ الشُّبِيُّ: بچھنا۔

الْمُهَبَّرُ الرَّجُلُ: پیچھے اترنا۔ الْمُهَبَّرُ: قائل۔

مُحْكَمٌ دَلَالٌ وَبِرَابِيْنٌ سَعِيْنٌ، مَتْنُوْعٌ وَمَنْفَرْدٌ مَوْضُوْعَاتٍ پَرِ مَشْتَمَلٌ مَفْتٌ اَنْ لَانِنٌ مَكْتَبِيْہ

الہیبط سم۔ نقصان۔ بڑائی میں بڑا۔ ذلت۔ کہا جاتا ہے "اللَّهُمَّ غَنِّنا لَاحِظًا" یعنی اے اللہ ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر غیبت کریں اور اس سے بچاؤ مانگتے ہیں کہ اپنی حالت سے بہتری میں آجائیں۔

الہیبطۃ۔ ہیبط کا اسم مرہ۔ پست و ہموار زمین۔ کہا جاتا ہے "ہُم لَہِیَ حَبْطٌ مِّنَ الْأَرْضِ" وہ لوگ پست زمین میں ہیں۔

الہیبطوط۔ ڈھلوان۔ نشیب کی زمین۔

الہیبط۔ دہلا پتلا۔

الہیبط۔ اترنے کی جگہ۔

الہیبطوط۔ دہلا پتلا۔ وِجِلٌ مَّهْبُوطٌ۔ محتاج و مفلس مرد۔

ہَبِيعٌ (ف) ہَبِيعًا وَهَبُوعًا الْجَمَازُ۔ گدھے کا

سُت رِقْمَارِی سے چلنا۔ اور جس کی ایسی حالت ہو

اس کو ہعب کہتے ہیں۔ البیعُ: اونٹ کا گردن

پھیلا کر چلنا۔ ہَبِيعٌ بَعْفُہ: جلدی کرنا اور گردن کا

سار الیہا۔ صفت ہابِيعٌ وَهَبُوعٌ۔

اسْتَهْبِيعُ البیعُ: اونٹ کو گردن پھیلا کے

چلوانا۔

الہبِيع۔ گدھا۔ اونٹ کا پتہ جو گرمی میں پیدا ہوا

ہو۔ جِ حَبِيعَاتٌ وَ حَبِيعٌ۔ مؤنث حَبِيعَةٌ جِ حَبِيعَاتٌ۔

الْمُهْبِيعُ۔ اونٹ کے بچوں کا مالک۔

ابِلٌ مُّہْبِيعٌ۔ گردن پھیلا کے چلنے والے اونٹ۔

ہَبِيعٌ (ف) هَبُوعًا وَهَبُوعًا الرَّجُلُ۔ سونا۔

الہبِيعۃ۔ نیند۔

الہبِيعۃ۔ ہمت سونے والا۔

الہبِيعۃ۔ رانوں کو بیٹ سے ملا کر سرین پر

بیٹنا۔

الہبِيعۃ وَ الہبِيعۃ۔ گھٹے بدن کا پستہ قد۔

الہبِيعۃ۔ منکر۔ بیوقوف۔ عورتوں سے گفتگو کو

پسند کرنے والا۔ ہاتھ میں لاشی لے کر مانگنے والا۔

وہ شخص جو اگر کہیں بیٹھ جائے تو ٹٹے نہیں۔

الہبِيعۃ۔ چوڑے مُد اور لکھے ہوئے ہونٹ

والا۔ البیٹ۔ رانوں کو بیٹ سے ملا کر سرین پر بیٹھنے

کی نشست۔

الہبِيعۃ بِدِ الْأَرْضِ۔ دھسنا۔

الہبِيعۃ۔ اجتناب۔ بیوقوف۔ زمین۔ جس میں پاؤں

دھس جائیں۔ جِ حَبِيعَاتٌ وَ حَبِيعٌ۔

ہَبِيعَتٌ (س) حَبِيعًا فَلَانًا أُمَّةٌ۔ گم کرنا۔ بے

فرزند ہونا۔ صفت ہابِيعٌ بَدْرُعا کے موقع پر کہا جاتا

ہے "ہَبِيعَةٌ أُمَّةٌ" یعنی اس کی ماں اس کو گم کرے

اور بسا اوقات مقام مدح و استحسان میں بولا جاتا

ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم اور صاحب

الرائے ہے۔

هَبِلَ الرَّجُلُ لِعَيَالِهِ۔ اہل و عیال کیلئے کمائی کرنا

— فَلَانًا: کس سے ہَبِيعَتُكَ أُمَّتُكَ کہنا۔

اللَّحْمُ فَلَانًا: گوشت تیرے چڑھنا۔

أَهْبِلَ الرَّجُلُ: بے اولاد کرنا۔ عقل و تیز کھونا

— اللَّحْمُ: گوشت تیرے چڑھنا۔

تَهَبَّلَ لِعَيَالِهِ۔ اہل و عیال کیلئے کمائی کرنا۔

إِهْتَبَلُ فَلَانًا: بہت جھوٹ بولنا اور جیلہ کرنا

— الصَّبَدُ: شکار کو فریب دینا۔

— لِعَيَالِهِ: اہل و عیال کے لیے کمائی کرنا۔

— الشَّيْ: غنیمت جانا۔ کہا جاتا ہے "أَهْبِلُ

كَلِمَةً حَكِيمَةً" حکمت کے کلمہ کو غنیمت جان۔

— عَلِيٌّ وَ لَدِيہ: بے اولاد کرنا۔ کہا جاتا ہے

"أَهْبِلُ هَبْلَكَ" اپنی حالت کی درستی کو لازم

جانو۔

الہابِيعُ۔ کمائی کرنے والا۔ جیلہ گر۔ بہت گوشت و

چربی والا۔

الہبِيعُ۔ ایک درخت ہے جس سے تیز بنائے

جاتے ہیں۔ واحد حَبِيعَةٌ۔

الہبِيعَةُ۔ عقل و تیز کھونا۔ جتو۔ کہا جاتا ہے

"نَالَهُ بِهَبِيعَاتِهِ"

الہبِيعَةُ۔ غنیمت۔

الہبِيعُ۔ کمائی کرنے والا۔ جیلہ ساز۔ فریب دینے

والا۔ اشکاری۔

الہبِيعُ۔ ہمہ۔ حالت۔

الہبِيعُ۔ بھینڑا۔ فریب دینے والا۔

الہبِيعَةُ۔ بوسہ۔

هَبِلَ۔ زمانہ جاہلیت کے ایک بہت کا نام۔

الآهْبِلُ۔ عقل و تیز کھونے والا۔ جِ حَبِيعٌ۔

الہبِيعُ وَ الہبِيعُ۔ بڑا یا بسا مرو۔ جیلہ جو۔ الہبِيعُ۔

ایک درخت کا نام۔

الہبِيعُ۔ تازی رِقْمَارِی کہا جاتا ہے "هَبِيعٌ مِّنْ جِبِی"

الہبِيعُ" وہ خرام ناز سے چلتا ہے۔

الہبِيعُ۔ بچہ گم کرنے والی عورت۔

الہبِيعُ۔ جس کو بد ذمہ داری جائے کہ تیزی میں

تجھے گم کرے۔ سو بے ہوئے چرے والا بچہ

گوشت۔ پاگل۔

الہبِيعُ۔ ہلکا۔

الہبِيعُ۔ جموٹا۔

الہبِيعُ۔ ہمہ۔ وہ جس کو اس کی ماں نے گم کر

دیا ہو۔

ہبِيعٌ وَ هَبِيعٌ۔ کوئی۔

الہبِيعُ وَ الہبِيعُ۔ بہت کمانے

والا۔ بڑے بڑے تھے لینے والا۔ کشادہ گھوڑا۔

الہبِيعُ۔ پستہ قد۔

الہبِيعُ۔ بیوقوف۔ پستہ قد۔

الہبِيعُ۔ بیوقوف۔ کمزور۔ چھل خور۔

الہبِيعُ۔ بہت کم کامیابی۔ سٹ کال۔

الہبِيعُ۔ سٹ کال۔

الہبِيعُ۔ تیز چلنا۔ نیند سے بیدار ہونا

— الشَّرَابُ: سراب۔ چمکانا۔ ہَبِيعَةٌ: ڈانٹا۔

ہَبِيعَةُ الكِبشِ: میزھے کو زن کرنا۔

تَهَبَّبَ الشَّيْ: ہلکا۔ حرکت کرنا۔

الہبِيعُ۔ تیز رفتار۔ ہلکا چمکانا۔

الہبِيعُ۔ تیز رفتار۔ چلانے والا۔ سراب

الہبِيعُ۔ اچھی حدی گانے والا۔ اچھی

خدمت کرنے والا۔ پکانے والا۔ بکریوں کا چرواہا۔

گوشت بھوننے والا۔ تصانی۔ عمدہ طریقے سے

محنت و مشقت کرنے والا۔ تیز رفتار۔ ہلکا چمکانا۔ اونٹ

مؤنث ہَبِيعَةٌ۔

هَبِيعَةٌ مِّنْ جِبِی۔ سٹ چلنا — الفَبِيعُ غبار کا

بلند ہونا — الفَرَسُ: گھوڑے کا بھگانا —

فُلَانٌ مَرِنًا — الرَّهَادُ: راگہ کا مٹی سے ملنا۔

أَهْبِيعُ أَهْبِيعًا الفَرَسُ: گھوڑے کا غبار اڑانا۔

تَهَبَّبَ تَهَبَّبًا: دونوں ہاتھ جھاڑنا۔

الہبِيعُ۔ فاجہ ہبِيعٌ۔ کہا جاتا ہے "نَحْوَمُ

هَبِيعًا" غبار سے چھپے ہوئے ستارے۔

الہبِيعُ۔ قبر کی مٹی۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَوْضِعُ

هَابِيعِ الشَّرَابِ" یہ غبار والی مٹی کی جگہ ہے

ابتدائی رات میں تھوڑی سی نیند کے بعد آیا۔
الْهَجْمَةُ هَجْعٌ كَأَسْمِ لَوْحٍ وَجُلٌّ هَجْمَةٌ
عَاطِلٌ يَرْتَوِّفُ مَرْدٌ

الْهَجْمُ مِنَ اللَّيْلِ رَاتٌ كَأَيْكٍ حَصْرَةٍ كَمَا
جَاتَا فِي "مَعْنَى هَجْمٍ مِنَ اللَّيْلِ" رَاتٌ كَأَيْكٍ
حَصْرَةٍ كَمَا كَرَّمِيَا

التَّهَجُّمُ ع. بَلَّغِي نَيْدٌ
الْمُهْجَمُ ع. عَاطِلٌ يَرْتَوِّسُ بِرَأْيِكٍ كَمَا مَطْبَعٌ وَ
فَرَاتِمِرْدَارٌ

هَجْفٌ (س) هَجْفًا هُوَ كَأَوْرَدِيَّةٍ يَبِيْتُ وَاللَّيْلِ
هُوَ كَأَوْرَدِيَّةٍ يَبِيْتُ وَاللَّيْلِ هُوَ كَأَوْرَدِيَّةٍ يَبِيْتُ
هُوَ كَأَوْرَدِيَّةٍ يَبِيْتُ وَاللَّيْلِ هُوَ كَأَوْرَدِيَّةٍ يَبِيْتُ

إِنْ هَجَفَ لَأَغْرَى كِي وَجْهٌ سَ تَلْهُوِي بَدْرِي
وَاللَّيْلِ هُوَ كَأَوْرَدِيَّةٍ يَبِيْتُ

الْمُهْجَمَانِ بِسَاءِ

الْمُهْجَمُ خَتُّ بَدَنِ سَتِّ (سْتَرْمَعٌ يَأْدِي)
مَوْلَانِ لِرَبِّهَا أَدَى - بُوَيْسٌ يَبِيْتُ وَاللَّيْلِ
الْمُهْجَمُ ذُبْلَانٌ مَوْلَانِ هَجْفَاءُ

هَجَلٌ (ن) هَجَلًا بِالْقَصْبِ وَغَيْرِهَا
يَجِيئُكَ هَجَلًا مَرْأَةً بَعْدَهَا: أَكْهَمَارًا

هَجَلٌ عِزَّةٌ: بِي عِزَّتِي كَرْنَا - بِفُلَانٍ
فَحْشٍ سَانَا وَرَكَلِي وَنَا

هَاجَلٌ مَهَاجَلَةٌ بَسْتٌ أَوْرَ مَوَارِزِيْنِ مِيْنِ
جَلْنَا - فُلَانًا بِمَقَابَلَةِ كَرْنَا

أَهْجَلُ الْإِبِلِ: أَدْتُوْنِ كَوِيكَارِ جَمُوْدِيْنَا -
الشَّيْءُ: كَشَادَهَ كَرْنَا - الصَّالُّ: مَالٌ ضَالَعٌ كَرْنَا

القَوْمُ: قَوْمٌ كَالْبَسْتِ أَوْرَ مَوَارِزِيْنِ مِيْنِ
آتَا - الْفَتْجَلُ الشَّيْءُ: الْبِهَادُ كَرْنَا

أَهْجَلُ - فَاسُوْنِ وَاللَّيْلِ بِسْتِ سَفَرِكُرْنِ وَاللَّيْلِ
الْمُهْجَلُ م. بَسْتٌ وَهَوَارِزِيْنِ - جِ أَهْجَلُ

وَهَجَالٌ وَهَجُوْنٌ
الْمُهْجَلَةُ هَجَلٌ كَأَسْمِ مَرَّةٍ - بَسْتٌ وَهَوَارِزِيْنِ
زِيْنِ - جِ هَجَلَاتٌ

الْمُهْجُولُ بِدَكَارِ عَوْرَتِ
الْمُهْجِيْلُ بَسْتٌ وَهَوَارِزِيْنِ - حَوْضٌ جَوَاطِيْ
طَرَحٌ سَ نَدَبَاتُو

دُمُوْعٌ هَجُوْنٌ - بِيْنَةُ وَاللَّيْلِ - مَفْرُو
هَاجَلٌ

هَجْمٌ (ن) هَجْمًا عَلَيَّهِ: غَفْلَتٌ كِي حَالَتِ

مِيْنِ أَهْجَاكِ آتَا - بِإِغْيَارِ أَهْجَازَتِ كِي آتَا - الْبَيْتُ:
مَكَانٌ كَأَكْرَانَا - الْبَيْتُ ذَاوِ الشَّيْءِ سَرُوِي يَأْجَاوُ
كَالْجَدِي شُرُوْعٌ هُوَانَا (- هَجْمًا) فُلَانًا:

وَحَكَارْنَا - دَفْعٌ كَرْنَا - فُلَانًا عَلَيَّ الْقَوْمِ أَهْجَاكِ
لَانَا - الذَّابَّةُ: جَوِيَابِيَهَ كُو زُوْرٍ سَ بَاكُنَا -

الْبَيْتُ: كَهَرٌ كُوْذَاوِيْنَا - الْهَوَاجِزُ فُلَانًا: بِيْبِيْنَةُ
بِنَانَا - مَنَافِي الصُّرُوعِ: تَحْمِنٌ سَ سَارَادُوْدَهَ لِيْنَا

- هَجْمًا وَهَجْمًا (مَنْ) الشَّيْءُ: قَرَارٌ وَسُكُوْنٌ پَانَا
- الْمَرَضُ: بِيْمَارِي كَا زَاكِلٌ هُوَانَا أُوْرَسْتِ پُرْنَا

- فُلَانٌ: جِيْبٌ رَهِنَا أُوْرَسْرَجْهَانَا - هَجْمَتٌ
عِيْنَتُهُ: أَكْهَمٌ كَاوْضُفٌ جَانَا

هَجْمَةٌ أَهْجَاكِ لَانَا -
هَاجِمَةٌ مَهَاجِمَةٌ - أَكِي دُوْرَسَ پَرِ أَهْجَاكِ

آتَا -
أَهْجَمَةٌ عَلَيْنَا: أَهْجَاكِ لَانَا - أَهْجَمٌ مَنَافِي
الصُّرُوعِ: تَحْمِنٌ سَ سَارَادُوْدَهَ لِيْنَا - الْإِبِلُ:
أَدْتُوْنِ كُو بَاوْزِ كِي طَرَفِ وَأِيْسِ لَانَا - اللُّهُ
الْمَرَضُ: بِيْمَارِي كُو زَاكِلٌ كَرْنَا

تَهَاجَمْنَا - أَكِي دُوْرَسَ پَرِ أَهْجَاكِ آتَا -
تَهَجَّمُ عَلَيَّ الشَّيْءُ: كِي جِيْبَرِ أَهْجَاكِ آتَا -
إِنْ هَجَمَ الْبَيْتُ: مَكَانٌ كَا كَلْهَتِ كُو دِيْرَانِ هُوَانَا

- الدَّمْعُ أَوْ الْعَوْقُ: آسُوْ يَأْجِيْبِيْنَةُ بِنَانَا -
إِنْ هَجَمَتِ الْعَيْنُ: أَكْهَمٌ كَاوْضُفٌ جَانَا -
إِنْ هَجَمَ مَنَافِي الصُّرُوعِ: تَحْمِنٌ سَ سَارَادُوْدَهَ
لِيْنَا

أَهْجَمُ الْمَرْجُلُ: كَزُوْرٌ هُوَانَا -
الْمُهْجَمُ م. بِزَايِيَالِهَ - بِيْبِيْسُ جِ أَهْجَامُ -
الْمُهْجَمُ بِزَايِيَالِهَ -

الْمُهْجَمَةُ هَجْمٌ كَأَسْمِ مَرَّةٍ - مِيْنِ الشَّيْءِ:
خَتُّ سَرُوِي - مِيْنِ الصَّنِيْفِ: خَتُّ كَرْمِي -
مِيْنِ الْإِبِلِ: جَاوِيْسٌ يَأْسْتَرُوْنُوْنِ سَ لَ كَسُوْمِكِ
كَالْغَلَّةِ - الْمُهْجَمَةُ: بُوْرُوْصِي بَجِيْبِيْرٌ رَاتٌ كِي اِبْتِدَائِي
تَارِيْكِ - كَمَا جَاتَا فِي "جِيْنَتُهُ بَعْدَ هَجْمَةٍ مِيْنِ
الْلَّيْلِ" مِيْنِ اِسِّ كِي پَاسِ رَاتٌ كِي اِبْتِدَائِي تَارِيْكِ
كِي بَعْدَ آيَا -

الْمُهْجَمُ م. بِيْبِيْسُ جِ أَهْجَامُ -
الْمُهْجَمُ بِزَايِيَالِهَ -

الْمُهْجَمَةُ هَجْمٌ كَأَسْمِ مَرَّةٍ - مِيْنِ الشَّيْءِ:
خَتُّ سَرُوِي - مِيْنِ الصَّنِيْفِ: خَتُّ كَرْمِي -
مِيْنِ الْإِبِلِ: جَاوِيْسٌ يَأْسْتَرُوْنُوْنِ سَ لَ كَسُوْمِكِ
كَالْغَلَّةِ - الْمُهْجَمَةُ: بُوْرُوْصِي بَجِيْبِيْرٌ رَاتٌ كِي اِبْتِدَائِي
تَارِيْكِ - كَمَا جَاتَا فِي "جِيْنَتُهُ بَعْدَ هَجْمَةٍ مِيْنِ
الْلَّيْلِ" مِيْنِ اِسِّ كِي پَاسِ رَاتٌ كِي اِبْتِدَائِي تَارِيْكِ
كِي بَعْدَ آيَا -

الْمُهْجَمُ م. بِيْبِيْسُ جِ أَهْجَامُ -
الْمُهْجَمُ بِزَايِيَالِهَ -

الْمُهْجَمَةُ هَجْمٌ كَأَسْمِ مَرَّةٍ - مِيْنِ الشَّيْءِ:
خَتُّ سَرُوِي - مِيْنِ الصَّنِيْفِ: خَتُّ كَرْمِي -
مِيْنِ الْإِبِلِ: جَاوِيْسٌ يَأْسْتَرُوْنُوْنِ سَ لَ كَسُوْمِكِ
كَالْغَلَّةِ - الْمُهْجَمَةُ: بُوْرُوْصِي بَجِيْبِيْرٌ رَاتٌ كِي اِبْتِدَائِي
تَارِيْكِ - كَمَا جَاتَا فِي "جِيْنَتُهُ بَعْدَ هَجْمَةٍ مِيْنِ
الْلَّيْلِ" مِيْنِ اِسِّ كِي پَاسِ رَاتٌ كِي اِبْتِدَائِي تَارِيْكِ
كِي بَعْدَ آيَا -

الْمُهْجَمُ م. بِيْبِيْسُ جِ أَهْجَامُ -
الْمُهْجَمُ بِزَايِيَالِهَ -

الْمُهْجَمَةُ هَجْمٌ كَأَسْمِ مَرَّةٍ - مِيْنِ الشَّيْءِ:
خَتُّ سَرُوِي - مِيْنِ الصَّنِيْفِ: خَتُّ كَرْمِي -
مِيْنِ الْإِبِلِ: جَاوِيْسٌ يَأْسْتَرُوْنُوْنِ سَ لَ كَسُوْمِكِ
كَالْغَلَّةِ - الْمُهْجَمَةُ: بُوْرُوْصِي بَجِيْبِيْرٌ رَاتٌ كِي اِبْتِدَائِي
تَارِيْكِ - كَمَا جَاتَا فِي "جِيْنَتُهُ بَعْدَ هَجْمَةٍ مِيْنِ
الْلَّيْلِ" مِيْنِ اِسِّ كِي پَاسِ رَاتٌ كِي اِبْتِدَائِي تَارِيْكِ
كِي بَعْدَ آيَا -

الْمُهْجَمُ م. بِيْبِيْسُ جِ أَهْجَامُ -
الْمُهْجَمُ بِزَايِيَالِهَ -

الْمُهْجَمَةُ هَجْمٌ كَأَسْمِ مَرَّةٍ - مِيْنِ الشَّيْءِ:
خَتُّ سَرُوِي - مِيْنِ الصَّنِيْفِ: خَتُّ كَرْمِي -
مِيْنِ الْإِبِلِ: جَاوِيْسٌ يَأْسْتَرُوْنُوْنِ سَ لَ كَسُوْمِكِ
كَالْغَلَّةِ - الْمُهْجَمَةُ: بُوْرُوْصِي بَجِيْبِيْرٌ رَاتٌ كِي اِبْتِدَائِي
تَارِيْكِ - كَمَا جَاتَا فِي "جِيْنَتُهُ بَعْدَ هَجْمَةٍ مِيْنِ
الْلَّيْلِ" مِيْنِ اِسِّ كِي پَاسِ رَاتٌ كِي اِبْتِدَائِي تَارِيْكِ
كِي بَعْدَ آيَا -

الْمُهْجَمُ م. بِيْبِيْسُ جِ أَهْجَامُ -
الْمُهْجَمُ بِزَايِيَالِهَ -

تِيْزِ هُوَانَا - بِيْبِيْسُ أُوْرَسَ - كَمَا جَاتَا فِي "تَحْمِنٌ فُلَانٌ
الْمُهْجَمُ هَجْمٌ" حَمَامٌ مِيْنِ رَاغِلٍ هُوَ جَاوِ اِسِّ
لِيْ كِي حَمَامٌ بِيْبِيْسُ أُوْرَسَ -
الْمُهْجَمَةُ كَاوْضُفٌ سَارَادُوْدَهَ -
الْإِهْجَامُ - رَاتٌ كَاوْضُفٌ حَصْرَةٍ -
الْمُهْجَمُ م. مَعْنَى بَيْتِ الْمُهْجَمِ: كَمَا هُوَ اَكْرَمُ
خِيْمَةٍ جِيْ كِي طَانِيْسِ كَمُوْلِ دِي جَانِيْسِ -
الْمُهْجَمَةُ مَانُوِي - سُوِي - نَزْكُوِي -

هَجْمٌ (ن) هَجْمًا: هَاجِمٌ هُوَانَا (دِي كِيْمَتِ لَفْظِ
هَاجِمِ)

هَجْمٌ (ك) هَجْمَةٌ وَهَجْمَانَةٌ وَهَجْمُوْنَةٌ كِيْمَةٌ
هُوَ - فَرُوْمَايَهَ هُوَانَا - دُوْغَلَا هُوَانَا - الْكَلَامُ: لَفْظٌ
هُوَ -

هَجْمَةٌ تَهْجِمُنَا - هَجْمِيْنُ بِنَانَا (دِي كِيْمَتِ لَفْظِ
هَجْمِيْنِ) هَجْمٌ الْأَمْرُ: تَحْقِيْرٌ كَرْنَا - عِيْبٌ دَارِنَانَا -
أَهْجَمُ النَّسْلِ أَدْتُوْنِ كَا
مَالِكٌ هُوَانَا - الْحَجَارِيَّةُ: بُلُوْرُجٌ سَ پِيْلَتِ شَدُوِي كَر
وِيْنَا -

أَهْجَمَتِ الشَّيْءُ: حَمَلٌ خَاطِرٌ هُوَانَا -
إِسْتَهْجَمَ لِفَعْلًا: فَجِعٌ كَهَمْنَا - كَمَا جَاتَا فِي "هَذَا
مِيْنَا يَسْتَهْجِمُ ذِكْرُهُ" - يَهْ اِنِ جِيْرُوْنِ مِيْنِ سَ
سَ جِنِ كَاوْضُفٌ جَانَا -

الْمُهْجَمُ م. فَادِ جَعْمَانِ جِيْسَ سَ اِكِي دَلْعِ كِي
مَارَتِيْ مِيْنِ أَكْ نَدِ كَلَّةِ - بِيْنِي جِيْسِ كِي شَدُوِي بُلُوْرُجِ
سَ پِيْلَتِ هُوَ جَانَا - كَجُوْرٌ كَاوْضُفٌ جُوْهَمُوْنِي
هُوَ پَرِي پِيْلَتِ دَسَ - جِ هُوَ اِحْنُ -

الْمُهْجَمَانُ مِيْنِ كَلَّةِ شَيْءٍ: عَمْدَةٌ وَخَالِصٌ مِيْنِ
الْإِبِلِ: سَفِيْدٌ نَسْلِ كَا شَرِيْفٌ أَدْتُوْنِ (اِسِّ مِيْنِ نَدِ كَر
مَوْلَانِ جَمِ سَبِّ بَرَابَرِيْنِ) كَمَا جَاتَا فِي "تَهْجَمُو
هَجْمَانٌ وَنَاقَةٌ هَجْمَانٌ وَابِلٌ هَجْمَانٌ" أُوْرَبِيَا
اِدْرَاكَتِ هَجْمَانِيْنِ مِيْسِيْ بُوْلَتِيْ هِيْزِ جَلُّ هَجْمَانٌ:
شَرِيْفٌ نَسْلِ مَرْدٍ وَعَلَيَّ هَذَا الْفِيْقَاسِ اِمْرَاةٌ
هَجْمَانٌ وَنِسْوَةٌ هَجْمَانِيْنِ اَرْضِ هَجْمَانٌ: سَفِيْدٌ
نَزْمٌ مِثْلِيْ دَالِي زِيْمِنِ -
الْمُهْجَمَةُ شَرَاْفَتٌ - سَفِيْدِي -
الْمُهْجَمَةُ م. مِيْنِ الْكَلَامِ: عِيْبٌ وَبِقَابِحَتِ
- لِي الْعِلْمِ: طَلْمٌ كِي بَرَادِي جِ هَجْمِيْنِ -
الْمُهْجَمِيْنُ: كِيْمَةٌ - وَهَ جِيْسِ كِي مَالِ بَانْدِي اُوْرَبَابِ

هَجْمَةٌ تَهْجِمُنَا - هَجْمِيْنُ بِنَانَا (دِي كِيْمَتِ لَفْظِ
هَجْمِيْنِ) هَجْمٌ الْأَمْرُ: تَحْقِيْرٌ كَرْنَا - عِيْبٌ دَارِنَانَا -
أَهْجَمُ النَّسْلِ أَدْتُوْنِ كَا
مَالِكٌ هُوَانَا - الْحَجَارِيَّةُ: بُلُوْرُجٌ سَ پِيْلَتِ شَدُوِي كَر
وِيْنَا -

أَهْجَمَتِ الشَّيْءُ: حَمَلٌ خَاطِرٌ هُوَانَا -
إِسْتَهْجَمَ لِفَعْلًا: فَجِعٌ كَهَمْنَا - كَمَا جَاتَا فِي "هَذَا
مِيْنَا يَسْتَهْجِمُ ذِكْرُهُ" - يَهْ اِنِ جِيْرُوْنِ مِيْنِ سَ
سَ جِنِ كَاوْضُفٌ جَانَا -

الْمُهْجَمُ م. فَادِ جَعْمَانِ جِيْسَ سَ اِكِي دَلْعِ كِي
مَارَتِيْ مِيْنِ أَكْ نَدِ كَلَّةِ - بِيْنِي جِيْسِ كِي شَدُوِي بُلُوْرُجِ
سَ پِيْلَتِ هُوَ جَانَا - كَجُوْرٌ كَاوْضُفٌ جُوْهَمُوْنِي
هُوَ پَرِي پِيْلَتِ دَسَ - جِ هُوَ اِحْنُ -

الْمُهْجَمَانُ مِيْنِ كَلَّةِ شَيْءٍ: عَمْدَةٌ وَخَالِصٌ مِيْنِ
الْإِبِلِ: سَفِيْدٌ نَسْلِ كَا شَرِيْفٌ أَدْتُوْنِ (اِسِّ مِيْنِ نَدِ كَر
مَوْلَانِ جَمِ سَبِّ بَرَابَرِيْنِ) كَمَا جَاتَا فِي "تَهْجَمُو
هَجْمَانٌ وَنَاقَةٌ هَجْمَانٌ وَابِلٌ هَجْمَانٌ" أُوْرَبِيَا
اِدْرَاكَتِ هَجْمَانِيْنِ مِيْسِيْ بُوْلَتِيْ هِيْزِ جَلُّ هَجْمَانٌ:
شَرِيْفٌ نَسْلِ مَرْدٍ وَعَلَيَّ هَذَا الْفِيْقَاسِ اِمْرَاةٌ
هَجْمَانٌ وَنِسْوَةٌ هَجْمَانِيْنِ اَرْضِ هَجْمَانٌ: سَفِيْدٌ
نَزْمٌ مِثْلِيْ دَالِي زِيْمِنِ -
الْمُهْجَمَةُ شَرَاْفَتٌ - سَفِيْدِي -
الْمُهْجَمَةُ م. مِيْنِ الْكَلَامِ: عِيْبٌ وَبِقَابِحَتِ
- لِي الْعِلْمِ: طَلْمٌ كِي بَرَادِي جِ هَجْمِيْنِ -
الْمُهْجَمِيْنُ: كِيْمَةٌ - وَهَ جِيْسِ كِي مَالِ بَانْدِي اُوْرَبَابِ

هَجْمَةٌ تَهْجِمُنَا - هَجْمِيْنُ بِنَانَا (دِي كِيْمَتِ لَفْظِ
هَجْمِيْنِ) هَجْمٌ الْأَمْرُ: تَحْقِيْرٌ كَرْنَا - عِيْبٌ دَارِنَانَا -
أَهْجَمُ النَّسْلِ أَدْتُوْنِ كَا
مَالِكٌ هُوَانَا - الْحَجَارِيَّةُ: بُلُوْرُجٌ سَ پِيْلَتِ شَدُوِي كَر
وِيْنَا -

أَهْجَمَتِ الشَّيْءُ: حَمَلٌ خَاطِرٌ هُوَانَا -
إِسْتَهْجَمَ لِفَعْلًا: فَجِعٌ كَهَمْنَا - كَمَا جَاتَا فِي "هَذَا
مِيْنَا يَسْتَهْجِمُ ذِكْرُهُ" - يَهْ اِنِ جِيْرُوْنِ مِيْنِ سَ
سَ جِنِ كَاوْضُفٌ جَانَا -

الْمُهْجَمُ م. فَادِ جَعْمَانِ جِيْسَ سَ اِكِي دَلْعِ كِي
مَارَتِيْ مِيْنِ أَكْ نَدِ كَلَّةِ - بِيْنِي جِيْسِ كِي شَدُوِي بُلُوْرُجِ
سَ پِيْلَتِ هُوَ جَانَا - كَجُوْرٌ كَاوْضُفٌ جُوْهَمُوْنِي
هُوَ پَرِي پِيْلَتِ دَسَ - جِ هُوَ اِحْنُ -

الْمُهْجَمَانُ مِيْنِ كَلَّةِ شَيْءٍ: عَمْدَةٌ وَخَالِصٌ مِيْنِ
الْإِبِلِ: سَفِيْدٌ نَسْلِ كَا شَرِيْفٌ أَدْتُوْنِ (اِسِّ مِيْنِ نَدِ كَر
مَوْلَانِ جَمِ سَبِّ بَرَابَرِيْنِ) كَمَا جَاتَا فِي "تَهْجَمُو
هَجْمَانٌ وَنَاقَةٌ هَجْمَانٌ وَابِلٌ هَجْمَانٌ" أُوْرَبِيَا
اِدْرَاكَتِ هَجْمَانِيْنِ مِيْسِيْ بُوْلَتِيْ هِيْزِ جَلُّ هَجْمَانٌ:
شَرِيْفٌ نَسْلِ مَرْدٍ وَعَلَيَّ هَذَا الْفِيْقَاسِ اِمْرَاةٌ
هَجْمَانٌ وَنِسْوَةٌ هَجْمَانِيْنِ اَرْضِ هَجْمَانٌ: سَفِيْدٌ
نَزْمٌ مِثْلِيْ دَالِي زِيْمِنِ -
الْمُهْجَمَةُ شَرَاْفَتٌ - سَفِيْدِي -
الْمُهْجَمَةُ م. مِيْنِ الْكَلَامِ: عِيْبٌ وَبِقَابِحَتِ
- لِي الْعِلْمِ: طَلْمٌ كِي بَرَادِي جِ هَجْمِيْنِ -
الْمُهْجَمِيْنُ: كِيْمَةٌ - وَهَ جِيْسِ كِي مَالِ بَانْدِي اُوْرَبَابِ

هَجْمَةٌ تَهْجِمُنَا - هَجْمِيْنُ بِنَانَا (دِي كِيْمَتِ لَفْظِ
هَجْمِيْنِ) هَجْمٌ الْأَمْرُ: تَحْقِيْرٌ كَرْنَا - عِيْبٌ دَارِنَانَا -
أَهْجَمُ النَّسْلِ أَدْتُوْنِ كَا
مَالِكٌ هُوَانَا - الْحَجَارِيَّةُ: بُلُوْرُجٌ سَ پِيْلَتِ شَدُوِي كَر
وِيْنَا -

أَهْجَمَتِ الشَّيْءُ: حَمَلٌ خَاطِرٌ هُوَانَا -
إِسْتَهْجَمَ لِفَعْلًا: فَجِعٌ كَهَمْنَا - كَمَا جَاتَا فِي "هَذَا
مِيْنَا يَسْتَهْجِمُ ذِكْرُهُ" - يَهْ اِنِ جِيْرُوْنِ مِيْنِ سَ
سَ جِنِ كَاوْضُفٌ جَانَا -

الْمُهْجَمُ م. فَادِ جَعْمَانِ جِيْسَ سَ اِكِي دَلْعِ كِي
مَارَتِيْ مِيْنِ أَكْ نَدِ كَلَّةِ - بِيْنِي جِيْسِ كِي شَدُوِي بُلُوْرُجِ
سَ پِيْلَتِ هُوَ جَانَا - كَجُوْرٌ كَاوْضُفٌ جُوْهَمُوْنِي
هُوَ پَرِي پِيْلَتِ دَسَ - جِ هُوَ اِحْنُ -

الْمُهْجَمَانُ مِيْنِ كَلَّةِ شَيْءٍ: عَمْدَةٌ وَخَالِصٌ مِيْنِ
الْإِبِلِ: سَفِيْدٌ نَسْلِ كَا شَرِيْفٌ أَدْتُوْنِ (اِسِّ مِيْنِ نَدِ كَر
مَوْلَانِ جَمِ سَبِّ بَرَابَرِيْنِ) كَمَا جَاتَا فِي "تَهْجَمُو
هَجْمَانٌ وَنَاقَةٌ هَجْمَانٌ وَابِلٌ هَجْمَانٌ" أُوْرَبِيَا
اِدْرَاكَتِ هَجْمَانِيْنِ مِيْسِيْ بُوْلَتِيْ هِيْزِ جَلُّ هَجْمَانٌ:
شَرِيْفٌ نَسْلِ مَرْدٍ وَعَلَيَّ هَذَا الْفِيْقَاسِ اِمْرَاةٌ
هَجْمَانٌ وَنِسْوَةٌ هَجْمَانِيْنِ اَرْضِ هَجْمَانٌ: سَفِيْدٌ
نَزْمٌ مِثْلِيْ دَالِي زِيْمِنِ -
الْمُهْجَمَةُ شَرَاْفَتٌ - سَفِيْدِي -
الْمُهْجَمَةُ م. مِيْنِ الْكَلَامِ: عِيْبٌ وَبِقَابِحَتِ
- لِي الْعِلْمِ: طَلْمٌ كِي بَرَادِي جِ هَجْمِيْنِ -
الْمُهْجَمِيْنُ: كِيْمَةٌ - وَهَ جِيْسِ كِي مَالِ بَانْدِي اُوْرَبَابِ

هَجْمَةٌ تَهْجِمُنَا - هَجْمِيْنُ بِنَانَا (دِي كِيْمَتِ لَفْظِ
هَجْمِيْنِ) هَجْمٌ الْأَمْرُ: تَحْقِيْرٌ كَرْنَا - عِيْبٌ دَارِنَانَا -
أَهْجَمُ النَّسْلِ أَدْتُوْنِ كَا
مَالِكٌ هُوَانَا - الْحَجَارِيَّةُ: بُلُوْرُجٌ سَ پِيْلَتِ شَدُوِي كَر
وِيْنَا -

عملی ہو۔ ج ہجین و ہجیناء و ہجنان و
مہاجین و مہاجینۃ مؤنث ہجینۃ ج ہجین و
ہجان و ہجانین کہا جاتا ہے "فوز و یزدونۃ
ہجین" خراب نسل کا گھوڑا یا ترکی گھوڑا اور
المہجین من الغنیل: ترکی گھوڑی اور عملی
گھوڑے سے پیدا شدہ گھوڑا ج ہجین و
ہجوان۔ لَبْنُ هَجِيْنٍ: دودھ جو نہ پتلا ہو نہ
گالا۔

عِلْمَةُ اَهْتِجِنَةٍ: بلوغ سے پہلے شادی شدہ
لڑکے۔

المُهَجِّنَةُ والمُهَجِّنِيُّ والمُهَجِّنِيُّ
والمُهَجِّنَاءُ: ناکارہ لوگ۔

المُهَجِّنَةُ مِنَ الثَّوْقِي: اہان کی جانب منسوب
اوثنی جو اچھی نسل سے ہونے کی وجہ سے
خراب نسل کے اوثنوں سے باز رکھی جائے۔
کجور کادرخت جس پر پہلی مرتبہ زکجور کاجپول
ڈالا جائے۔ اوثنی جو پہلی مرتبہ حاملہ ہو۔

المُهَجِّنَةُ: کجور کادرخت جس پر پہلی بار ز
کجور کاجپول ڈالا جائے۔ کجور جو چھوٹے ہونے
کے باوجود پھل دے۔ بچی۔
المُهَجِّنِس: بھاری۔

المُهَجِّنُ: موٹا لبا مرد۔ گھنٹا بڑھا۔ مؤنث
المُهَجِّنَةُ: اوثن کا پتہ جو گرمی کے زمانہ میں پیدا
ہوا۔

المُهَجِّنُف: لبا جو زبان ہجینا یف۔
هَجِيْحُ الفَحْلِ لِيْنِ هَدِيْرِهِ: زور سے آواز
نکالنا۔

— الرَّجُلُ: کسی چیز سے باز رکھنا — الْجَمَلُ
او بِالْحَمَلِي: "بچ بچ" کہہ کر روکنے کیلئے
ڈھٹنا۔

المُهَجِّحُ ج یو توف۔ بڑا شریر۔ کم عقل والا۔
بست بڑھانے والا اوثن۔ لبا مرد یا اوثن۔
مصیبت بڑھا۔ عمر رسیدہ۔ یوم ہجھاج: تیز
ہوا کا دن۔

المُهَجِّحَةُ: بھینے ہجھاج۔ بجز زمین۔ ج
هَجَّاحٍ مَاءٌ هَجَّاحٍ: پانی جو نہ کماری ہو نہ
بیٹھا۔

هَجَّاءٌ يَهْجُوْهُ هَجْوًا وَهَجَاةٌ وَتَهْجَاةٌ۔

محابب شمار کرنا۔ عیب گیری کرنا۔ گل دینا۔ مذمت
کرنا۔ صفت قائل بان اور صفت مفسول مہجؤ
— هَجْوًا وَهَجَاةً: الخُرُوف: حروف کے بچے
کرنا۔

هَجَّاءٌ يَهْجُوْهُ هَجَاةً۔
هَجْوُكُ (هَجَاوَةٌ): التَّوْمُ: دن کا سخت گرم
ہونا۔

هَجَّيْ تَهْجِيَةُ الخُرُوفِ: حروف کے بچے کرنا
— اللَّفْظَةُ: لفظ کے حروف کا جوڑ ملانا —
العَصِيْبُ الكِتَابُ: بچے کو کتاب پڑھانا۔

هَجَّيْتُهَا وَهَجَّيْتُهَا جَاءَ: ایک دوسرے کی بھوکرنا۔
أَهْجِي اَهْجَاءَ القُرْبَى: جھوٹا لپانا۔

تَهْجِي تَهْجِيَةُ الخُرُوفِ: حروف کی بچے
کرنا۔

تَهْجِيْتُهَا تَهْجِيْتُهَا وَ اِهْتِجَاءُ اِهْتِجَاءُ اِيك
دوسرے کی بھوکرنا۔

المُهَجَّاءُ: حروف کا جوڑ۔ خُرُوفُ المُهَجَّاءِ:
الف سے لے کر یا تک اور ان کا نام حروف
العصبي والفہجینہ بھی ہے اور کہا جاتا ہے
"هَذَا هَلِي هَجَاءٌ هَذَا" یہ اس کی شکل پر ہے
"وَهُوَ عَلِي هَجَاءٌ فَلَانٍ" وہ لبا کی اور شکل میں
للاں کے انداز پر ہے۔

المُهَجَّاءُ: مینڈک۔

المُهَجَّاءُ: بست بھو کرنے والا۔ کہا جاتا ہے
"زَجَلٌ هَجَاءٌ" بست بھو کرنے والا مرد۔
الأَهْجُوْهُ قَوْلُ الأَهْجِيَّةِ: جو جو قطعاً تصید سے
کی جائے۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ أَهْجُوَةٌ أَوْ أَهْجِيَّةٌ"

يَتَهَجَّوْنَ بِهَا جِ اَهْجِيَّ"
هَجَّ: ناک نکلنے والے کی آواز کی نقل۔

هَدَّ (ن) هَدًا وَهَدْوًا: البِنَاءُ: عمارت کو
دھماکے سے گراتا۔ کہا جاتا ہے "هَذَّةُ الفَصِيحَةِ"
مصیبت نے اس کے اعضاء کو ضعیف بنا دیا۔
"وَهَدَانِي هَذَا الأَمْرُ أَوْ هَدَوْتُكُنِي" یعنی اس
محلہ نے میری کرتوڑ دی۔

هَدَّ (س) هَدًا: الرَّجُلُ: بڑھا ہونا۔

هَدَّ (ض) هَدًا: التَّبِيْعُ: اوثن کا بڑھانا —
هَدَانِي (ا) الحَائِظُ وَنَحْوُهُ: دیوار وغیرہ کا دھماکے
سے گراتا۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا زَجَلٌ هَدَّكَ مِنْ"

زَجَلٌ" یہ مرد تمہارے لیے فلاں مزد سے کافی
ہے۔ بعض لوگ اس قول میں لفظ ہد کو مصدر
قرار دیتے ہیں اس وجہ سے وہ تشبیہ جمع مؤنث
وغیرہ نہیں لاتے اور یہ اکثر کا قول ہے۔ اور بعض
فعل قرار دیتے ہیں اس وجہ سے وہ تشبیہ جمع
مؤنث وغیرہ سب لاتے ہیں۔ کہتے ہیں "مَزْوَتْ
يَزْجُلُ هَذَكَ مِنْ زَجَلٍ وَبِأَمْرَةٍ هَذَنْكَ مِنْ
بِأَمْرَةٍ وَبِزَجَلَيْنِ هَذَاكَ وَبِزَجَالِ هَذَوِكَ
بِأَمْرَتَيْنِ هَذَاكَ وَبِأَمْرَةٍ هَذَوْتِكَ" رخ اور
کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَهَذَا الرَّجُلِ" یعنی وہ اچھا آدمی
ہے اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ قوت اور
طاقت کی تعریف کی جائے۔ اور مطلقاً تعجب کے
موقع پر بھی بولا جاتا ہے اور فَلَانٌ يَهْدُ اس وقت
بولا جاتا ہے جبکہ بھاری اور قوت کی تعریف کی
جائے۔

هَدَّذُوْهُ تَهْدِيْدَةٌ: دھمکانا۔ خوف دلانا۔
تَهْدَاؤُهُمْ تَهْدَاؤٌ: ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔
إِنْهَذَا الجَبَلِ أَوْ البَيْتِ: پہاڑ یا مکان کا ٹوٹ
پڑنا۔ کرنا۔

إِسْتَهْدَى: کمزور سمجھنا۔
التَهْدَاؤُ: سمندر کا شور۔

التَهْدَاةُ: الهَدَاةُ: الهَدَاةُ كَالْمَوْثِ: گرج۔ کہا جاتا ہے "مَا
سَمِعْنَا العَامَ هَدَاةً" ہم نے اس سال گرج نہیں
سنی۔

الهُدَّ: مہ۔ فیاض۔ سخت آواز — (وَالهُدَّ)
کمزور مرد۔ ج هَدْوُنٌ وَهَدْوُنٌ۔

الهُدَّدُ: سخت آواز۔
الهُدَّةُ: ہد کا اسم مرؤ۔ دھماکا۔

الهُدَادُ: مریاتی۔ نرمی۔ مہلت۔ اور اسی سے
ہے "هَذَا ذَنْبُكَ" اور یہ "حَتَانِيكَ" کے قبیل
سے ہے۔ گویا کہ کہنے والا کہتا ہے "مَتَهَلَّا بَعْدَ
مَهَلٍ" یعنی چھوڑ دو۔ دور رہو۔ عظیمہ ہو جاؤ قوم
ہَذَا: بزدل لوگ۔

الهُدَاةُ: بزدل۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ هَذَاةٌ"
بزدل مرد۔

الهُدُوْدُ: نرم زمین۔ دشوار گزار گھالی اکھٹا
ہَدُوْدٌ: ٹیلہ جس سے اتر دشاوار ہو۔

الهُدَيْدُ: مہ۔ لبا مرد۔ دھماکا۔ آواز کی

<p>الْمَهْدَةُ: هَدْنٌ كَأَسْمَةِ: تَحْوِي بِلِي بَارَشٍ. الْمَهْدَةُ: مَعَالِكُ: أَرَامٌ - سَكُونٌ - حِجْ هَدْنٌ. الْمَهْدُونُ: مَصْلُ. الْمَهْدُونُ: نَفْسٌ - بَسْتٌ سَوَّلَ وَاللَّجُونُ مَحْجِي نَمَازِي رَمَعٌ أَوْ نَمَازِي ضَرُورِيَاتِ كَلِي لِي جَانِي. كَنَدُ مَن جَوْ صَرَفِ بَاتُونَ سَ رَاضِي هُوَ جَانِي. الْمَهْدَةُ: سَكُونٌ - أَرَامٌ. الْمَهْدَانُ: بَزُولٌ - تَخِيلٌ. هَذَهْدُ هَذَهْدَةُ الْعَيْشِ: أُونْتُ كَا بَزُولَانَا — الْقَائِزُ: بِرَنَدَ كَا تَكْرِي كَرْنَا. هَذَهْدَتِ الْعَيْشِ أُمَّهُ: بَنِي كُو سَوَّلَ كَلِي لِي بَلَانَا هَذَهْدَتِ الشُّيْ مِنْ غَلْبُو إِلَى أَسْفَلِ: آتَارْنَا. كَمَا جَانَا هُوَ "يَهْدُ هَدَانِي كَذَا" مَعْنَى إِيخَالِ هُوَ تَابِي. الْمَهْدَةُ: جَنَاتُ كِي آوَازِي (أَس كِيلِي وَاحِد نِيَسِ) الْمَهْدُ وَالْمَهْدُ وَالْمَهْدُ وَالْمَهْدُ هَدِيدٌ وَاحِدٌ هَذَهْدَةٌ وَهَذَهْدَةٌ وَهَذَهْدَةٌ وَهَذَهْدَةٌ هَذَا هَدِيدٌ "أَبْصُرْ مِنْ هَذَهْدِي" كَتَبِي هُنَّ أَس وَجْ سَ كَرَبِ كَا خِيَالِ تَمَا كَلِي يَابِي كُو زَمِينِ كَلِي لِي سَ وَكَلِي لِي تَابِي. الْمَهْدُ: هَرُ كُو كَرْنِي وَاللَّ بَرَنَدُ: بَسْتٌ كُو كُو كَرْنِي وَاللَّ كُو تَرَجِ هَذَا هَدِيدٌ وَهَذَا هَدِيدٌ. الْمَهْدَةُ: مَمُ: كَبِيرَتِي كُو كُو آوَاذِي. الْمَهْدَادُ: نَرِي. تَم كَتَبِي هُوَ "عَلَيْكَ بِالْمَهْدَادَةِ" بِعِي أَوْ نَرِي كُو لَازِمُ كَرُو. هَذَا هَدِيدٌ وَهَذَا هَدِيدٌ وَهَذَا هَدِيدٌ وَهَذَا هَدِيدٌ رَهْمَانِي كَرْنَا. كَمَا جَانَا هُوَ "هَذَا الطَّرِيقُ وَهَذَا إِلَى الطَّرِيقِ وَ إِلَى الطَّرِيقِ" أَس لِي أَس سَ رَاسَتِي مِيَانِ كَرِيَا أَوْ نَمَازِي رَاسَتِي هَذَا اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ أَوْ لِلْإِيمَانِ: هَدَايَتِي كَرْنَا هَذِي الرَّجُلُ: هَدَايَتِي تَابَا. هَذِي تَهْدِي هَذَا الْعَرُوسُ إِلَى بَغْلِيهَا: دَلِنُ كُو شَهْرِي كَسَاسِي بِيحِي — فَلَانَا: آغِي هُوَا "جَاءَتِ الْخَيْلُ تَهْدِيهَا فَرَسٌ أَشْفَرُ" كَمُورُونِ كَا كَلِي آيَا جَنِ كَلِي آغِي كَلِي لِي لَالِ رَجُلٌ كَا كَمُورَاتِي. هَذِي تَهْدِي تَهْدِي الشُّيْ: جَدَا جَدَا كَرْنَا. الْمَهْدِيَةُ لِلْفَلَانِ وَالْيَهُ: تَخْفَرْنَا — الْعَرُوسُ</p>	<p>الْحَايِطُ: دِيوارٌ مَسْدُومٌ هُوَ كِي. شَهِيدُ الْمَهْدَمِ: وَه مَعْنَى جَوْ كُونِيَسِي مِيَانِ كَر جَانِي يَاسَ كَلِي أَوْ بِرَ دِيوارِ كَر بَرَنَدِي. الْمَهْدَةُ: أَسْمَةُ بِلِي بَارَشٍ. الْمَهْدَةُ: بَرَانَا كِي بَرَانَا حِجْ هَدُونُ. الْمَهْدِينُ: بِسَلِي سَالِ كِي بَاقِي بَانَدَه كَمَاسُ. عَجُوزٌ مَهْدِيَةٌ: بَسْتٌ بِرَحِيَا. الْمَهْدَمُ وَالْمَهْدُونُ وَالْمَهْدُونَةُ كَا لَحَا أَوْ جَمَا هُوَا دَوَاهُ: أَرْضٌ مَهْدُونَةٌ: زَمِينٌ جَسَ بِرَ بِلِي بَارَشٍ هُوَلِي هُوَ. خُفٌّ مَهْدَمٌ: بُو سِيدَه بُو نَدَ كُو بُو جَرِي مَوَازِي. هَذَا مَلُ الرَّجُلِ: كَبِيرِي جَانَانَا. الْمَهْدُولُ: بَرَانَا كِي بَرَانَا دِيرِي: بَسْتٌ بَالُونِ وَاللَّ. الْمَهْدُ: بَرَانَا كِي بَرَانَا جَمْعٌ شَدِيدٌ بَلَدِي شَدِيدٌ. الْمَهْدَةُ: بَسْتٌ رَحْمَتُونَ وَاللَّ رِيغَمَتَانِ: زَانَدُ تَدِيمُ: كُو كُو كِي جَمَاعَتِي. هَدْنٌ (ض) هَدُونًا: أَرَامٌ تَابَا: بَزُولٌ هُوَا — وَحِيلًا هُوَا (— هَدْنًا) أَرَامٌ دِي: جَمُوعِي وَعَدَه سَ رَاضِي كَرْنَا — الْعَيْشِي: خُوشِ كَرْنَا. الشُّيْ: دُونِ كَرْنَا — فَلَانَا: مَعْنَى كَرْنَا. هَلِينِ عَنَّا فَلَانُ: كَسِي كَا تَمَ سَ تَحْوِي سِي جِي پَا كَر رَاضِي هُوَا. هَدْنٌ: تَسْكِينٌ دِي: بَارُ رَكْنَا. كَمَا جَانَا هُوَ "هَذَهْدَةُ بِالْقَوْلِ حَتَّى هَدْنٌ" أَس كُو أَنَسُونِ لِي قَوْلِ سَ رَاضِي كِي يَمَانِ تَمَا كَلِي وَه رَاضِي هُوَ كِي — الْعَيْشِي: خُوشِ كَرْنَا. كَمَا جَانَا هُوَ "هَذَهْدَتِ الْمَرْأَةُ صَبِيحَتَهَا بِكَلَامِهَا لِلنِّسَامِ" عَوْرَتِي لِي اِسْتَبِي كُو سَوَّلَ كِيلِي لُورِي دِي. أَهْدَنُ الْخَيْلِ: دِيوارِ كَرْنَا. كَمُورُونِ كُو جَمِيرِ إِيخَالِي. هَذَا نَهْدَانَةٌ: مَصْلُ كَرْنَا. تَهَادَنُ الْأَمْرُ: دَرَسْتُ هُوَا — الْقَوْمُ: بَانِمُ مَصْلُ كَرْنَا. إِنْتَهَدَنُ الرَّجُلُ عَنِ عَزْمِهِ: بَسْتٌ هُوَا. الْمَهْدَانُ: كَمُورُونِ بُو تَوَفُّ: جِيكُ مِيَانِ سَتِ: حِجْ هَدُونُ. الْمَهْدَانَةُ: لَرَانِي كَلِي بَعْدِ مَصْلُ. الْمَهْدَانُ: سَرَسِي: فَرَاغِي: أَرَزَانِي. الْمَهْدَانُ: حِيلَانُ.</p>	<p>بِأَجُونِ وَاللَّ أَوْتُ. الْمَهْدِيَةُ: أُونْتُ كِي تَحْوِي كَلِي لِي كَلِي لِي بَالِ. هَدْمٌ (ض) هَذَا مَا بِنَاءٌ: عِمَارَتٌ وَحَانَا — الْقَوْبُ: كَبِيرِي مِيَانِ بُو نَدَ كَرْنَا. أَوْ كَمَا جَانَا هُوَ "مَهْدِيَةٌ مَهْدِيَةٌ" أَس لِي أَس كَمَارِ أَوْ رِيغَمِي تَوَازِي دِي. هَدْمُ الرَّجُلِ فِي النَّجْرِ: سَمَدَرِي مِيَانِ كَرْنَا. هَدْمُ بِنَاءٍ: عِمَارَتٌ وَحَانَا (تَشْدِيدٌ مَبَالِغِي كِيلِي هُوَ) — الْقَوْبُ: كَبِيرِي مِيَانِ بُو نَدَ كَرْنَا. تَهْدَمُ بِنَاءٌ: عِمَارَتٌ كَا آبَسْتُ آبَسْتُ كَرْنَا. كَمَا جَانَا هُوَ "تَهْدَمُ عَلَيْهِ عَصَبَانَا" أَس لِي أَس وَحِيلًا دِي — الْقَوْبُ: كَبِيرِي كَا بُو سِيدَه هُوَا. تَهَادَمُوا: أَيْكُ دُو سَرِي كَلِي خُونِ كُو مَبَاحِ كَرْنَا. إِنْتَهَدَمُ بِنَاءٌ: عِمَارَتٌ كَا دِيرَانِ وَشَكْتِي هُوَا. الْمَهَادِمُ: نَا. هَادِمُ اللَّذَاتِ: كَنَانِي هُوَ سَوْتُ هُوَ. الْمَهْدَامُ: كَمُورُونِ أَسْمَدَرِي مِيَانِ لَاحِنِ هُوَ. الْمَهْدَمُ: مَمُ: مَبَاحِ كَلِي هُوَ عِي خُونِ. كَمَا جَانَا هُوَ "ذَمُّهُ هَدْمٌ" أَس كَا خُونِ مَبَاحِ هُوَ. الْمَهْدَمُ: بُو سِيدَه يَابِي بُو نَدَ كُو كَبِيرِي: حِجْ أَهْدَامُ وَ هَدْمُ. كَمَا جَانَا هُوَ "عَلَيْهِ نَبَاتٌ هَدْمٌ وَأَهْدَامٌ" وَهُ بُو سِيدَه كَبِيرِي پَنِي پَنِي هُوَ هُوَ. الْمَهْدَمُ: بَرِ فَرُوتِ كَمُورُونِ بَرَانَا: جَرِي مَوَازِي. الْمَهْدِمُ: مَخْتٌ: يُو تَوَفُّ. الْمَهْدَمُ: خُونِ مَبَاحِ. كَمَا جَانَا هُوَ "ذَمُّهُ هَدْمٌ" أَس كَا خُونِ مَبَاحِ هُوَ. كُونِيَسِي كَلِي كَنَارُونِ سَ شَكْتِي هُوَ كَر جَوْ كُونِيَسِي هِي مِيَانِ كَر بَرَنَدِي. هَرُودِ عِمَارَتِي جُو دِيرَانِ وَشَكْتِي هُوَ كِي هُوَ. كَمَا جَانَا هُوَ "إِنَّ حَفْرَكَ إِلَى لَهْدَمٍ وَإِنَّ حَنْتَكَ إِلَى لَانْشَوَظَةَ" يِي أَس وَتَمِ بُولَا كَرْتِي تَمِ جِيكُ يِي كَمَا تَمْشُودُ هُوَ كَلِي تَمَارِي دِي دَرَسْتُ كَمِ سَ يِي عَرَبِ مَبَالِغِي أَوْ رَهْمَتِي كَلِي وَتَمِ كَمَا كَرْتِي تَمِ "ذَمِينُ ذَلِكَ وَهَذَا هَذَا هَذَا" مَعْنَى أَرُ كَر كِي لِي مَعْنَى قَلِ كَرْتِي تَمِ مِيرِي خُونِ كَا مَبَالِغِي كَرْتِي جِي تَمِ تَمِ اِسْتَبِي أُولِيَاءِ كَلِي خُونِ كَا مَبَالِغِي كَرْتِي هُوَا أَرُ كَر كِي لِي مِيرِي عَزْتِي بَلَاغِي تَوَا لِي تَمَارِي عَزْتِي پَرَنَدِ كَلِي. أَوْ كَمَا جَانَا هُوَ "إِنْقَعَصَ هَدْمٌ مِيَانِ</p>
--	--	---

تھڈب۔ پاکیزہ ہونا۔ درست ہونا۔
الزجل۔ شاکستہ ہونا۔

الھڈب۔ صفائی۔ خلوص۔

فوش ہڈب۔ تیز رفتار گھوڑا۔

اہل مہادیب۔ تیز رو اڈٹ۔ مفروضہ ہڈاب۔

المھڈب۔ صف۔ پاکیزہ اخلاق والا۔ محبوب سے

پاک صاف۔ کلام مھڈب او شیخو مھڈب

محبوب سے پاک کلام یا شعر۔ فوش او ظایر

مھڈب۔ تیز رفتار گھوڑا یا پرندہ۔

الھڈیبی۔ گھوڑوں کی ایک چال۔

مھڈخوت مھڈخوتہ و تھڈخوت تھڈخوت۔

عورت کا ناز سے چلنا۔

مھڈر (ن ض) مھڈرا و تھڈرا الزجل فی

کلامہ: یکواس کرنا۔ (مھڈرا: الہڈوم) دن کا

سخت گرم ہونا۔

مھڈر (ن) مھڈرا کلامۃ: لغوی بیورہ ہونا۔

مھڈر فی منطلقہ و فی کلامہ: یکواس کرنا۔

یڈوم مھڈر۔ سخت گرم دن۔

المھڈرمہ۔ یکواس و بیورہ کنگور۔

زجل مھڈرو مھڈرو مھڈرہ و مھڈرہ و مھڈرا

و مھڈرو مھڈرا و مھڈرنا و مھڈرو مھڈرا

و مھڈرا و مھڈرا۔ یکواس کرنے والا۔ بیورہ بکنے والا۔ و

زجل مھڈرنا: جلدی بولنے والا۔ خدمت میں

چست۔ مھڈرا مھڈرہ و مھڈرہ و مھڈرا:

یکواس کرنے والی عورت۔

مھڈرب۔ جلدی جلدی بہت بولنا۔

المھڈرنا۔ جلدی بولنے والا۔ خدمت میں

چست۔

المھڈیری۔ عادت۔

مھڈرف۔ جلدی کرنا۔ تیز چلنا۔

المھڈروف۔ تیز رفتار جھاریف۔

مھڈرم مھڈرمہ۔ بہت بولنا۔ بڑھتے اور بولنے

میں جلدی کرنا۔ الزجل فی کلامہ: گڑبڑی

کرنا۔

المھڈرمہ۔ تیز رفتار۔

المھڈرام۔ بہت بولنے والا۔ کہا جاتا ہے "زجل

مھڈرام" بہت بولنے والا۔

جلدی کرنے والا۔ کہا جاتا ہے مھڈرا مھڈری،
بہت شور۔ او شرارت والی عورت۔

مھڈر (ض) مھڈرنا۔ تیز چلنا۔

زجل مھڈر و مھڈر و مھڈر تیز رفتار

مرد۔

مھڈر۔ چلنے میں گوشت و ہڈی کا ہلنا۔ فرسند و

شادوں ہونا۔

مھڈر (ض) مھڈرنا۔ تیز چلنا۔ کہا جاتا ہے

"مھڈر فی مھڈرہ و مھڈر" وہ تیز روڑا۔

المھڈر۔ رات کا درمیانی حصہ۔

المھڈرنا۔ ہلکا ہلکا مرد۔ ہلکا تیر۔ چست۔ بھیرا۔ لہبا

اور سخت بدن کا گھوڑا۔ چھوٹا نیلہ۔ پانی کی چھوٹی ٹالی۔

ریت کے ذرات۔ آفت۔ ابتدائی رات یا بقیہ

شب۔ ہارک ہول۔ بارش جو دور سے دکھائی

دے۔ ج مھڈرنا۔

مھڈر مھڈرہ فی مھڈرہ: تیز چلنا۔ دوڑنے

میں لڑکھانا۔ بیوہ۔ چیشاب کرنا۔ چیشاب اوپر

کوکرنا۔

المھڈرنا۔ بندر کا بیچہ۔

المھڈرنا۔ جلد بازی۔ ہلکا پن۔

المھڈرنا۔ مہلے ہونے والا۔

المھڈرنا۔ بد صورت۔ بیوقوف۔

مھڈرم۔ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیزی

سے چلنا۔

مھڈرم (ض) مھڈرنا مھڈرنا: جلدی سے کھانا۔

الزجل۔ جلدی سے کھانا۔ صفت مھڈرم۔

المھڈرم۔ ہمارا۔ کوار قاطع۔ بیٹان مھڈرم تیز

بھالا۔

بیکین مھڈرم۔ تیز چھری۔

مھڈرم مھڈرمہ و مھڈرمہ۔ تیز دھار۔

المھڈرمہ من الشیوف: شمشیر پاں۔

مھڈرنا۔ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے

تیزی سے چلنا۔

المھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: بہت

کھانے والی کوار۔ تیز رفتار۔ مھڈرنا مھڈرنا: پانی

کے لئے رات میں دشوار سفر۔

المھڈرنا۔ وہ لوگ جو ہر ایک کو اپنا اپنا غلام

بتلا گئے۔

مھڈر مھڈرہ مھڈرنا مھڈرنا: کھانا مھڈرنا
الکلام: مرض و فیروہ کی وجہ سے غیر معقول

ہاتھ کرنا۔ یکواس کرنا۔

مھڈر مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: مرض و فیروہ کی

وجہ سے غیر معقول ہاتھ کرنا۔ یکواس کرنا۔ صفت

ہاڈر اور اسم المھڈرنا۔

مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: گوشت کو اچھی طرح

گلا کرنا۔

مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: ہام یکواس کرنا۔ کہا جاتا ہے

"مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا" وہ بیجا اور اپنے

ساتھیوں کے ساتھ ہام یکواس کرتا رہا۔

مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا:

زجل مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: بہت یکواس کرنے والا

مرد۔

مھڈر (ن ض) مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: ناپسند کرنا۔

کہا جاتا ہے "مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا" ملاں کو لوگ

ناپسند کرتے ہیں۔ مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: تھوری

چڑھانا۔ مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا

آواز نکالنا۔ (مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: کانٹے کا تنگ و

پر اگندہ ہونا۔ مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: پانچمانہ کرنا۔

المھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: بیعت چلانا۔

مھڈر (ض) مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: کتے کا سردی کی وجہ

سے بھونکنا (باج سے کم)۔ المھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا:

بھونکنا۔ مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: کتے کا مسمان

پر بھونکنا۔

مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: ہر ایک بیماری میں

چلنا ہونا۔ مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: بیعت چلانا۔ ہل تک ہر

جانا۔

مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: بد خلق ہونا۔

مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: کسی کے سامنے تھوری چڑھانا۔

مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا:

مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: بھونکنا۔ اور اسی سے مثال ہے

"مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا" (بڑے شرنے کے کو بھونکنا)

مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: بکریوں کو پانی پر لانا۔ یا گھٹ پر لے

جانا۔

المھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: کتا جبکہ اپنے دانت نکالے۔

المھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا مھڈرنا: اونٹ کے گوشت اور کھان کے

درمیان دوم کے مانند ایک مرض۔ اونٹ کا

اسل۔

الہزومہ۔ اونٹ کے اونٹ کی ایک قسم۔

الہزومہ۔ بلخ ہزومہ۔ مونسٹ ہزومہ ج ہزوم اور

بقول بعض ہزومہ کا اطلاق نہ کرو مونسٹ دونوں کے

لیے ہے۔ اور ہزومہ صرف مونسٹ کے لیے اور

ہزومہ کی تصویر ہزومہ اور اس سے ہے ابو ہریرہ۔

الہزومہ۔ اونٹ کے ہانگے یا پانی پر بلانے کی آواز۔

کراہت۔ ناپہندہ گی۔ اور امثال عرب میں سے

ہے "لا یغرف ہزومہ بنو" وہ دوست دشمن میں

تیز نہیں کرتا یا وہ بی ملی اور چہ ہے میں تیز نہیں

کرتا۔

الہزومہ شیر۔ بست دودھ اور پانی۔

الہزومہ۔ اسم مبالغہ۔ اونٹ نکالنے والا کتا۔ کہا

جاتے ہیں "هلک من لا ہزومہ" ہلاک ہو گیا جس

کے پاس ہرگز نہیں تھا جس سے دشمن کو سمجھا۔

الہزومہ۔ ان۔ سرداق اور قلب مغرب دو

ستروں کے نام سلوہ مہرہ جنوری۔

الہزومہ۔ زین پر بکھرے ہوئے انگوٹے کے

والے۔

الہزومہ۔ کہنے کی آواز (باج سے کم) کہا جاتا

ہے "اذہر غیرہ و اقبل ہزومہ" اس کی خوش

ظنی جالی رہی اور بد خلقی آئی۔ اس شخص کے

لیے بولا کرتے ہیں جو بوزھا اور بد خلق ہو جائے۔

کہا جاتا ہے "اجذلی و جہہ ہزومہ و ہزومہ"

میں اس کے چہرے میں نفرت کے آثار محسوس

کرتا ہے۔

المہزومہ۔ مرض ہرگز میں جٹا اونٹ۔

ہزومہ ہزومہ ہزومہ متعلقہ۔ بست جس کوئی

کرتا۔ بست لعلی کرنا۔ ہزومہ او ہزومہ البرزومہ

فلان ہلاک کرنے والی سخت سردی پڑنا۔ ہزومہ

الزومہ: ہوا کا سخت سرد ہونا۔ اللہم:

گوشت کو بست پکانا۔

ہزومہ (س) ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ اللہم:

گوشت کا بست پکا ہونا۔

ہزومہ الحوامی: موش کی سردی یا گرمی

سے ہلاک ہونا۔ صفت مہزومہ۔

ہزومہ اللہم: گوشت گلا ہوا پکانا۔

الہزومہ المناشیہ: بد حال کرنا۔

آہزومہ ہزومہ البرزومہ: ہلاک کرنے والی سخت

سردی پڑنا۔ اللہم: گوشت گلا ہوا پکانا۔

فلان فلان: قتل کرنا۔ اللہم و لہی

اللہم: بست پکانا اور بیسودہ ہونا۔

تہزومہ اللہم: گوشت گلا ہوا پکانا، تہزومہ

المناشیہ: موش کی سردی کی وجہ سے بد حال ہونا۔

کہا جاتا ہے "ہزومہ البرزومہ المناشیہ لتہزومہ"

جانور پر سخت سردی پڑی جس سے وہ بد حال ہو گیا۔

الہزومہ: بیسودہ وغیرہ مربوط کلام (والہزومہ)

بست اور بیسودہ کہنے والا۔ ہزومہ ہزومہ او ہزومہ:

بست اور بیسودہ کہنے والی عورت۔

الہزومہ۔ درخت خرما کا پودا۔

الہزومہ۔ بست پکا ہوا گوشت جو ہڈی سے علیحدہ

ہو جائے۔

الہزومہ۔ مونسٹ الہزومہ سخت سردی کا وقت

کہا جاتا ہے "ہذہ قزومہ لہا ہزومہ" یہ ایسی

صفت ہے کہ جس میں لوگوں کو اور جانوروں کو

تکلیف پہنچتی ہے اور مرجاتے ہیں۔

الہزومہ۔ غصہ پکا ہوا گوشت۔

ہزومہ (ن) ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او ہزومہ او

کا خادم۔ واحد ہزومہ۔

الہزومہ۔ دیکھی سے آہستہ حال۔

الہزومہ۔ جست و جہالاک چور ہلاک پکانا ہزومہ

ہزومہ۔

الہزومہ۔ ایک قسم کی زکاری۔

ہزومہ (ن) ہزومہ بالزومہ: نیزہ مارنا۔

ہزومہ اللہم: گوشت گلا پکانا۔ اللہم:

پکانا پکانا۔ ہزومہ فلان: آمروزی کرتا۔

ہزومہ (س) ہزومہ اللہم: کشادہ ہونا۔ کہا جاتا

ہے "ہزومہ اللہم" اس نے اپنی ہاتھیں

کھولیں۔

آہزومہ اللہم: گوشت گلا پکانا۔

الہزومہ و الہزومہ و الہزومہ و الہزومہ

الہزومہ۔ کشادہ۔ کشادہ ہاتھوں والا۔ راز کونہ

چھپانے والا۔ بیسودہ کہنے والا۔

الآہزومہ۔ کشادہ ہاتھوں والا۔ کہا جاتا ہے

"آہزومہ و آہزومہ"

الہزومہ۔ بست پکا کرنا اور ہزومہ

الہزومہ۔ علم شیر۔ کلاب مہزومہ

الآہزومہ: چوڑی ہاتھوں والے کتے۔ کہا جاتا

ہے "ہزومہ اللہم" وہ چوڑی ہاتھوں والا

ہے۔ ج۔ مہزومہ

آہزومہ اللہم: چوڑی ہاتھوں والا

شیر۔

الہزومہ۔ پکانا پکانا۔

الہزومہ و الہزومہ۔ شیر۔

الہزومہ۔ کتے کے منتھوں کے درمیان کی

سیاہی۔ شیر۔

ہزومہ (ض) ہزومہ اللہم: نکتہ و لہذا میں پڑنا

الہزومہ: روزانہ کھانا ہوا چھوڑنا۔ اللہم:

گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ فی الحدیث ہے

جوڑ آور بست ہاتھیں کرتا۔

ہزومہ (س) ہزومہ اللہم: گرمی یا پلٹے سے

سائنس چھانا۔

ہزومہ باللہم: ڈانٹا۔ ڈانٹا۔ اللہم:

فلان: بست کرنا۔ عوام کتے ہیں "ہزومہ لہی

الحدیث" اس نے ہنسی کی باتیں کیں۔

تَهَارِجُ الْقَوْمِ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔
إِتْهَارِجُ فَلَانٍ مِنَ التَّيْبَةِ: مست ہونا۔
إِسْتَهَارِجُ لُفَا الرَّأْيِ: رائے کا قومی اور ہمہ گیر ہونا

الهِزَج: مہ۔ قند و فسار۔ آشوب۔
الهِزَج: بیوقوف۔ ہر چیز سے کمزور۔
الهِزَجَة: ہزج کا اسم نوع۔ نرم کمان ج ہزج۔

الهِزَاج: اسم مبالغہ۔ قوسِ هَزَاجٍ: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔

الهِزَاجَة: الهِزَاج کا مؤنث۔ بے جوڑ اور بہت بائیں کرنے والی جماعت۔

قَوْسٌ مِهْرَجٌ وَ مِهْرَاجٌ: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔

الهِزْجَابُ وَالهِزْجُوبُ: لہاج ہوا چنبھ۔
الهِزْجَة: عمر سیدہ اونی۔

الهِزْجِجُ: لہاج لکڑا۔
الهِزْجُفُ: خرد دست و نرم۔

هَزَجْلُ الرَّجُلِ: چلنے میں لاکھڑانا۔ دور دور قدم رکھنا۔

الهِزْجَائِلُ: لمبے لمبے لوگ۔ موٹے موٹے اونٹ۔

الهِزْجُلُ: لمبے قدم ڈالنے والا ج ہزاجیل۔
هَزْدَةٌ (ض) هَزْدًا: کھڑے کھڑے کرنا۔

مِجَارَاتَا: هَزْدُ اللَّحْمِ: گوشت کو گلا کر پکانا۔
المشني: قادر ہونا۔ عجزتہ: بے آبروی کرنا۔

المشني: خراب کرنے کے لیے مِجَارَاتَا۔
هَزْدُ (س) هَزْدًا اللَّحْمِ: گوشت کا گل کر پکانا۔

هَزْدٌ: زور رنکا ہوا کپڑا پھینا۔ اللَّحْمِ: گوشت کو گلا کر پکانا۔ کما جاتا ہے "هَزَادُ الشَّيْءِ"

يَهْرِئِدُهُ هَزَادَةً" یعنی آڑ ڈیوئید، ازاڈۃ ہمزہ کو با سے بدل دیا گیا ہے جیسے آفاق و حواقی میں۔

الهِزْدُ: مہ۔ قند و فسار۔
الهِزْدُ: شتر مرغ، خمر دے و قاروے اعتبار۔

الهِزْدُ: زرد کرک۔ سرخ مٹی ہلدی۔
الهِزْدِيُّ وَالهِزْدَاءُ: ایک قسم کی گھاس۔

الهِزْدِيُّ: ہلدی سے رنگا ہوا۔
الهِزْدِيَّةُ: خراب ہو کر پھٹا ہوا۔

رَجُلٌ أَهْرَدُ الشَّدْقِ: چوڑی ہاجھوں والا مرد۔

المَهْرُودُ: هُرْد سے رنگا ہوا زرد کپڑا۔
هَزْدَبُ هَزْدَبَةً: ست دوڑنا۔

الهِزْدَبَةُ: بڑھیا۔ بڑول۔ بڑے پھندہ والا۔
هَزْدَجُ الرَّجُلِ: تیز چلنا۔

الهِزْدَشَةُ: عمر سیدہ اونی و مہیز بڑھیا۔
هَزْدَةٌ (ض) هَزْدًا: سختی سے چھوٹا۔ کھلوی سے بارنا۔

هَزْدُ (س) هَزْدًا وَ هَزْوَزٌ: ہلاک کرنا۔ مرنا۔
تَهَزُّوْزٌ مِنَ النُّجُوعِ: بھوک سے ہلاک ہونا۔

هَزْوَسٌ (ن) هَزْوَسًا الشَّيْءِ: سخت کوٹنا۔ الظعام: بہت کھانا۔

هَزْوَسٌ (س) هَزْوَسًا: بہت کھانے والا ہونا۔ چمپا کر کھانا۔

الهِزْوَسُ: بڑے کائنات کا ایک درخت واحد هَزْوَسَةٌ: هَزْوَسَةُ الْقَوْمِ: قوم کی عزت۔ قوم کا سخت حملہ۔ کما جاتا ہے "الشيء هَزْوَسَةً"

فلاں کی اولاد کے لیے عزت و تکرہ ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں۔

الهِزْوَسُ: بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر۔

الهِزْوَسُ: مہ۔ ملی۔

الهِزْوَسُ: ملی۔ پرانا کپڑا۔ بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر۔ مکان ہزوس: ہراس و درخت آگاہے والی جگہ۔ مؤنث هَزْوَسَةٌ۔

الْأَهْوَسُ: سخت گراہار۔ بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر۔

الهِزْوَسُ: اسم مبالغہ۔ بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر ہر سہ بنانے والا ہر سہ بیچنے والا۔

الهِزْوَسُ: باریک کوٹا ہوا (— وَالهِزْوَسَةُ) ایک قسم کا کھانا جو گوشت اور کوٹے ہوئے گیہوں کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔

رَجُلٌ مِهْرَسٌ: بہت کھانے والا۔

المِهْرَسُ: ہاون۔ المِهْرَسُ: پتھر کا ہاون۔ اوکلی۔ بہت کھانے والا اونٹ۔ بیماری جسم کا اونٹ۔ مرد جو رات میں چلنے سے نہ ڈرے۔ ج۔

مِهَارِسٌ۔
هَزْوَسٌ (ن) هَزْوَسًا الدَّهْرُ: زمانہ کا سخت

ہونا۔

هَرَسٌ (س) هَرَسًا: بد خلق ہونا۔

هَرَسٌ بَيْنَ الْكِلَابِ: کتوں کے درمیان بھڑکانا۔ بَيْنَ النَّاسِ: لوگوں میں لڑناؤ والا۔

هَارَسٌ هَارَسَةً وَ هَارَسًا بَغْضِ الْكِلَابِ عَلَيَّ بَغْضِهَا: بعض کو بعض پر بھڑکانا۔

فَلَانًا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ ایک دوسرے سے جھگڑنا۔

تَهَارَسَتْ وَ اهْتَرَسَتْ الْكِلَابُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔

تَهَرَسَ الْغَيْمُ: ہادل کھل جانا۔
الهِرَاشُ: ہاراش کا صدر۔ جھگڑا۔ متنازعہ۔

الهِرَاشُ: سخت عادت والا۔ اکثر۔
المِهَارِشُ: فا۔ کما جاتا ہے "قَوْسٌ مِهَارِشٌ"

الْعَيْنَانِ: سبکی رنگم والا گھوڑا۔
الهِزْشَةُ: ہزوشیا۔

هَزْشَتٌ وَ اهْزَشَتْ: الهِزْشَةُ: دوات کے صوف کا سوکھ جانا۔

الهِزْشَفُ مِنَ الرَّجَالِ: دہلا ہوا بڑھا۔ بہت پیچھے والا۔ بہت بڑھیا۔

الهِزْشَةُ: بہت بڑھی۔ بوزھی اونٹنی۔ دوات کا خشک شدہ صوف۔

الهِزْشَةُ: نرم پتھر۔ نرم پھاڑ۔

الهِزْشَةُ: بہت دودھ والی بکری۔ سخت زمین۔
الهِزْشِيْنُ: چوڑی ہاجھوں والا۔

هَرَسٌ (س) هَرَسًا: خشک خارش والا ہونا۔
هَرَسٌ الرَّجُلِ: خشک خارش کی وجہ سے بدن کا سمبھک اٹھنا۔

الهِرَاحُ: مہ۔ کپڑا۔ خشک خارش۔
الهِرَاحَةُ: پانی جمع ہونے کی جگہ۔

هَرَسٌ (ن) هَرَسًا الْقَوْبُ: کپڑا پھاڑنا۔
هَرَسٌ (س) هَرَسًا: خشک خارش والا ہونا۔

هَرَسٌ الرَّجُلِ: خشک خارش کی وجہ سے بدن کا سمبھک اٹھنا۔

هَرَطٌ (ن) هَرَطًا عَرَضٌ فَلَانٌ وَ فِينِ عَرَضِهِ: آبروریزی کرنا۔ فی الکلام: غیر مربوط اور بیہودہ کھانا۔

هَرَطٌ (س) هَرَطًا: بیماری وغیرہ کی وجہ سے

ذبیحہ گوشت والا ہوتا۔

تَهَارَظًا - ایک دوسرے کو گالی دینا۔

الْمَهْرَظُ - مہ۔ (س) المہرَظُ بہت دیر کا گوشت۔

متمول مرد۔ دہلی بوڑھی بھیڑ۔ نَاقَةُ هَرْظًا: عمر

رسیدہ اونٹنی۔ ج اَهْرَاطُو هَرْوُط۔

المہرَظَةُ - دہلی بوڑھی بھیڑ۔ بیوقوف۔ بزدل۔

کمزور جھوٹ۔

المہرَظُ - نرم۔ المہرَظُ ظال: لمبے قدم والا۔

المہرَظُ ظمان: ایک قسم کا نمل۔

هَرْعٌ (ف) هَرْعًا إِلَيْهِ: اضطراب کے ساتھ

جلدی جانا۔

هَرْعٌ (س) هَرْعًا الدَّمُ: خون کا جلدی بہنا۔

الرَّجُلُ: تیز رفتاریا جلدی رونے والا ہونا۔

هَرْعُ القَوْمِ الرِّمَاحُ: قوم کا تیز سیدھا کر کے

چلنا۔

هَرْعٌ وَهَرْعُ الرَّجُلِ: چلنے میں جلدی کرنا۔

أَهْرَعُ الرَّجُلُ: جلدی کرنا — القَوْمُ

وَمَا حَهُمْ تَبْزَهُ سِيدَا حَاكَرَ كَ چلنا۔

أَهْرَعُ الرَّجُلُ: خفیف الغلظ ہونا۔ غصہ یا

کمزوری یا خوف یا سردی سے کانپنا۔ جلدی

دوڑایا جانا۔ صفت مہرَظٌ اور کہا جاتا ہے "أَقْبَلُ

الشَّيْخُ يَهْرَعُ" بڑھا اضطراب ہو کر دوڑنے لگا۔

تَهَرَّعَتِ الرِّمَاحُ: نیزوں کا سیدھا ہونا۔

تَهَرَّعَ إِلَيْهِ: جلدی کرنا۔

إِهْتَرَعَ العَوْدُ: لکڑی توڑنا۔

أَسْتَهْرَعَتِ الإِبِلُ: حوض کی طرف دوڑنا۔

المَهْرَاجُ: اضطراب کے ساتھ تیز رفتاری۔ تیز

پاگنا۔

المَهْرَجُ - مہ۔ اضطراب کی چال۔ تیز پاگنا۔

المہرَجُ - جلدی بننے والا خون۔ رَجُلٌ هَرْعٌ

جلدی رونے والا تیز رفتار۔ مَوْنَسٌ هَرْعَةٌ۔

المہرَجَةُ والمہرَجَةُ: جوں کے مانند ایک کپڑا یا

چھوٹی جوں اور بقول بعض بڑی جوں۔

المہرَجَةُ: باریک ٹہنیوں والا درخت۔

المشہرَعُ والمہرَجُ: شیر۔

المشہرَعُ: پاگل۔ محنت و مشقت سے

درماندہ۔

المشہرَعُ: مہق۔ لالچی۔

المہرَجُ - بزدل 'بیوقوف' جلد باز۔ چست

عورت رنج مہرَجٌ ومہرَجَةٌ: تیز چلنے والی ہوا جو

مٹی اڑائے۔

المہرَجَةُ: چرواہے کی بانسی اور اس کو یوڑا عہ

بھی کہتے ہیں۔

المہرَجَةُ: کینے لوگ۔

هَرْفٌ (س) هَرْفًا يَفْلَانُ: کسی پر تعجب کرتے

ہوئے طرح میں مبالغہ کرتا۔ بغیر جانے ہوئے طرح

کرنا۔ اور اسی سے ہے "لَا تَهْرَفْ بِمَا لَا تَعْرِفُ"

جس کو تم جانتے نہیں اس کی طرح مت کرو۔

هَرْفَةُ الرِّبْحِ: ہوا کا اڑنا دینا۔ وهَرْفُ الشَّيْخِ:

درندے کا گانا آواز نکالنا۔

هَرْفَتِ تَهْرِيْفًا التَّخْلَةَ: جلدی چل دار ہونا۔

هَرْفُ القَوْمِ إِلَى الصَّلَاةِ: نماز کیلئے جلدی کرنا۔

أَهْرَفَتِ التَّخْلَةُ: جلدی چل دار ہونا۔

أَهْرَفُ الرَّجُلُ: بال نای کا مالک ہونا۔

هَرْقٌ (ف) هَرْقًا وَهَرْقًا المَاءُ: پانی گرانا۔

هَرْقُ المَاءِ: پانی گرانا (تشدید کثرت کے لئے

ہے) اور کہا جاتا ہے (هَرْقٌ عَلَى جَسْمِكَ" یعنی

اپنی جگہ پر قائم رہو یہ ایک مقولہ ہے جو غضبناک

آدی سے کہا جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ اپنے غصہ کی

آگ کو بجھاؤ۔

هَرْقُ المَاءِ يَهْرَقُهُ هَرْقًا: گرانا۔ اس کی

اصل "أَرَاكَ يُوْرِقُهُ إِزَاقَةً" ہے۔ ہمزہ کو ہا سے

بدل دیا گیا ہے۔ اور هَرْقًا کی اصل هَرْيَقًا

ذخوجہ کے وزن پر ہے۔ اور اسی وجہ سے

مضارع میں يَهْرَقُهُ کی ہا کو فتح دیا جاتا ہے جیسا کہ

يَذْخُوجُهُ میں داخل کو اور امر کا صیغہ هَرْقُ کی

اصل هَرْيَقُ ہے ذخوجہ کے وزن پر 'ثقات کی

وجہ سے یا کہ کسرہ کو نقل کر کے اجتماع ساکنین کی

وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا۔ تشبیہ کا صیغہ هَرْيَقًا

اور جمع کا هَرْيَقُوا۔ اور کہا جاتا ہے "هَرْيَقُوا

عَلَيْكُمْ أَوَّلَ اللَّيْلِ" وہ لوگ تمہارے پاس

ابتدائی رات میں آئے۔

اور کبھی ہاء اور ہمزہ دونوں کو جمع کیا جاتا ہے اور

کہا جاتا ہے "أَهْرَاقَهُ يَهْرَقُهُ أَهْرَاقًا" سکون ہاء

سے گویا کہ ہمزہ یا عی حرکت کی عوض میں بڑھا دیا

گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس زیادتی سے فعل

نمایا نہیں ہوتا۔ اسم فاعل کا صیغہ مہرَجٌ اور

اس مفعول مہرَجٌ ومہرَجٌ۔

تَهَارَظًا: بعض کا بعض پر پائی کرنا۔

أَهْرَاقُوا أَهْرَاقًا الدَّمُ وَالْمَطَرُ: آنسو یا

بارش کا جاری ہونا۔

المہرَجُ: پراٹا کپڑا۔

المہرَجُ: أَهْرَقُ کا اسم مفعول۔ صحیفہ۔ سفید

ریشم کا کپڑا جس کو گوند سے چٹنا کر کے لکھنے کے

کام میں لاتے ہیں۔ چھیل بیان۔ کپڑا یا کاغذ چٹنا

کرنے کا کہ۔ ج مہرَجٌ۔

المَهْرَقَانُ والمَهْرَقَانُ والمَهْرَقَانُ

سندھ۔ کنارہ سندھ جہاں پانی چڑھے اور پھر اتر

جائے اور کوڑیاں باقی رہ جائیں۔

مَطَرٌ مَهْرَجٌ وَرُقٌ: موسلا دھاری بارش۔

هَرْقٌ وَهَرْقٌ: رومیوں کا ایک بادشاہ اور یہ

پہلا شخص ہے جس نے دینار چلائے اور گرجا

بنائے۔ هَرْقٌ وَهَرْقٌ: چھلی۔

هَرْكَلٌ هَرْكَلَةٌ: سست اور ناز سے چلنا۔

جَمَلٌ أَدْرَجُلٌ هَرْكَلٌ: موٹا اور بڑے جسم کا

اُونٹ یا مرو۔

المَهْرَاجَةُ: بڑی بڑی چھلیاں "آئی کتے۔ بڑے

چوڑے والے دریائی جانور۔ سندھ کی مہجوں کے

جمع ہونے کی جگہ۔ واحد هَرْكَلٌ۔

المَهْرَاجَةُ والمَهْرَاجَةُ والمَهْرَاجَةُ

والمَهْرَاجَةُ: خوبصورت اندام خوش رفتار

عورت۔ بڑے سر کی عورت۔

المَهْرَاجَةُ: خرام ناز۔

المَهْرَجُ: پہلے شوہر کا بیٹا۔

هَرْمٌ (س) هَرْمًا وَمَهْرَمًا وَمَهْرَمَةٌ: کمزور

ہونا اور بہت بوڑھا ہونا۔ صفت هَرْمٌ۔ ج

هَرْمُونٌ وَهَرْمِيٌّ مَوْنَسٌ هَرْمَةٌ ج هَرْمَاتٌ وَ

هَرْمِيٌّ۔

هَرْمَةُ الدَّهْرِ: بہت بوڑھا کرنا۔ هَرْمٌ فَلَانًا

تقلیم کرنا — اللَّحْمُ: چھوٹے چھوٹے ٹکڑے

کرنا۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فَلَانٌ يَهْرَمُ عَلَيْنَا الأَمْرُ

أَو الخَيْرُ" فلاں آیا اور ہمارے سامنے معاملہ گویا

خبر کو بڑا کر کے بیان کرتا ہے۔

أَهْرَمَةُ الدَّهْرِ: بہت بوڑھا کرنا۔ کمزور کرنا۔

تَهَارَمَ الرَّجُلُ: بگلف اپنے آپ کو بوڑھا
ظاہر کرنا۔

إِسْتَهْرَمَهُ: بہت بوڑھا سمجھنا۔ بہت بوڑھلانا۔
الْهَرَمُ: ایک قسم کی ترشی یا کسٹن گھاس۔
وَاحِدٌ هَرَمَةٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ أَذْلٌ مِنْ هَرَمَةٍ" وہ
ہرمہ گھاس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔

الْهَرَمُ: بہت بوھلایا۔ نفس و عقل۔ کہا جاتا ہے
"إِنَّكَ لَا تَذَرِي بِنَا يُؤَلِّعُ هَرَمُكَ" تم نہیں
جانتے ہو تمہارا نفس کس چیز پر فریفتہ ہے۔ قَدْحُ
ہرم: ٹوٹا ہوا۔ الھرم: عمدہ رائے۔

الْهَرَمُ: مہ۔ انتہائی بوھلایا۔
الْهَرَمُ عِنْدَ أَرْبَابِ الْمَسَاحَةِ: مخروطی شکل
کی عمارت جس کی کرسی ٹھٹھ یا مربع یا بہت
اصطلاح والی ہو۔ ج۔ اُھرام و ہوام۔ اور اسی سے
"اُھرامِ مِصْرَ" ہے جو اس لیے بنائے گئے تھے
کہ بادشاہوں کے مدفن کا کام دیں۔

الْهَرَمِيُّ: خشک لکڑی۔
الْهَرَمَانُ: عقل۔ عمدہ رائے۔
إِبْنُ هَرَمَةَ: غیر منصرف۔ بڑھے بڑھیا کی آخری
اولاد۔

الْهَرَمَةُ: الھرم کا مؤنث۔ شیرنی۔
الْهَرَمُومُ: بد عادت۔ خبیث عورت۔
الْمَهْرَمَةُ: مہ۔ انتہائی بوھلایا۔
الْمَهْرَمِيَّةُ: پرانے کوئیں۔

هَرَمَ هَرَمَةَ الرَّجُلِ: کینہہ ہونا۔ آہستہ چپانا۔
ساعتی سے چھپا کر گھنگو کرنا۔ الْمَلْفَمَةُ لِقَمَةُ چپانا
اور منہ میں پھرانا اور نہ لگانا۔ النَّازُ: آگ کا
بھسنا۔

هَرَمَسَ هَرَمَسَةً وَجْهَهُ: تیوری چڑھانا۔
الْمَهْرَمَسَةُ: مہ۔ لوگوں کا شور و جج۔
الْمَهْرَمَسَةُ: ماہرین علم نجوم۔
الْمَهْرَمُوسُ: مضبوط رائے والا۔ تجربہ کار
چالاک۔

الْمَهْرَمِيسُ: لوگوں پر سخت حملہ کرنے والا شیر۔
الْمَهْرَمِيسُ: سخت حملہ کرنے والا شیر۔ جیسے کا
بچہ۔

الْمَهْرَمِيسُ: سخت حملہ کرنے والا شیر۔ گینڈا۔
هَرَمَطَ عِرْضَهُ: بے آبروی کرنا۔

إِهْرَمَعَ إِهْرَمَاعًا الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ جلدی
رونے والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "إِهْرَمَعَتِ الْعَيْنُ"
جب کہ آنکھوں سے آنسو جلد نکل پڑے۔

لَفِيَ مُنْطَلِقَهُ: بہت بولنا۔ إِهْرَمَعَ إِلَيْهِ: بگلف
رونا۔
الْمَهْرَمَعُ: جلدی رونے والا۔ حال میں سرعت و
سکی۔

هَرَمَلَةٌ هَرَمَلَةٌ: بال اکھیرنا۔ هَرَمَلُ الشَّعْرِ
وَالْوَبُو وَالزَّوْبُشُ: اکھیرنا۔ کائنا۔ هَرَمَلُ عَمَلَةٍ:
بگاڑنا۔ خراب کرنا۔ هَرَمَلَتِ الْعَجُوزُ بُوْحَايَةَ كِي
وَجِدَّ سَ كَرُورِ هَوْنَا — الْوَبُو: اونٹ کے بالوں کا
گرتا۔

الْمَهْرَمِلُ: بوڑھی اونٹنی۔ عمر رسیدہ عورت۔
الْمَهْرَمُولُ: بالوں کا کچھ حصہ جو سر کے اطراف
میں باقی رہ جائے ج۔ هَرَمِيلُ:

الْمَهْرَمُولَةُ: کپڑے کا ٹکڑا جو پرانے کرتے کے
دامن سے پھٹ جائے۔
الْمَهْرَمُونُ: کھجور کی ایک قسم۔

هَرَمَلَصَ هَرَمَلَصَةً: درخت کے کیڑے کا چلنا۔
الْمَهْرَمَلَصَةُ: درخت کا کیڑا جس کو سوزنے بھی
کہتے ہیں۔

الْمَهْرَمُوعُ: چھوٹی جوں۔
الْمَهْرَمُوعَةُ وَالْمَهْرَمُوعُ: بڑی جوں۔
هَرَمَلَفَ هَرَمَلَفَةً: آہستہ بننا۔

الْمَهْرَمَلَفَةُ: کمزور آواز والی۔ رونے میں سست
آواز والی۔
هَرَمَلَفَ هَرَمَلَفَةً الشَّيْءُ: حرکت دینا۔

الرَّجُلُ: بے فائدہ بننا۔ بِالْفَتَمِ أَوِ الْإِبِلِ
بکریوں یا اونٹوں کو پانی پر بلانا یا گھات پر لے جانا
— عَلِيٌّ فَلَانٌ: دوست درازی کرنا۔ الصَّانُ:
بھیز کا میانا (— وَتَهْرَمَاتِ الرَّبِيْعِ: ہوا کا
سائیں سائیں کرنا۔

الْمَهْرَمُوسُ: بوڑھی بکری۔
الْمَهْرَمُوسَةُ: مہ۔ لڑائی میں ہندوؤں کے شور و غل
کی نقل۔ بھیز کی آواز۔ هَرَمُوسَةُ الْأَسَدِ: شیر کے
دباڑنے کی گونج۔

الْمَهْرَمُوسَةُ: انھور کی تیل کی جڑ میں انھور کا کر ا ہوا
دانہ۔

الْمَهْرَاهِرُ: بہت دودھ اور پانی۔ شیر۔ ج۔ هَرَاهِرُ
الْمَهْرَاهِرُ: بہت دودھ اور پانی۔ بے فائدہ ہنسنے
والا۔ وبلا گوشت۔ شیر۔

الْمَهْرَاهِرُ: بہت دودھ اور پانی۔ آواز دینے والا
جاری پانی۔ ایک قسم کی کشتی۔ انھور کا بکھرا ہوا
دانہ۔ بوڑھی بکری۔

الْمَهْرَاهِرِيُّ: ایک قسم کی مچھلی۔ ایک خبیث قسم کا
سانپ۔

هَرَاهِرٌ يَهْرَاهِرُ هَرَاهِرًا وَتَهْرَاهِرُ تَهْرَاهِرًا: لاشمی سے
مارنا۔ ڈنڈے سے مارنا۔

الْمَهْرَاهِرَةُ: موٹا ڈنڈا۔ سوٹا۔ ج۔ هَرَاهِرٌ وَهَرَاهِرٌ
وہرئی۔

الْمَهْرَاهِرُ: ہروی کپڑوں کا بیچنے والا۔
هَرَاهِرٌ: خراسان کے ایک شہر کا نام۔ نسبت کے
لیے هَرَاهِرِيٌّ:

هَرَاهِرٌ: تیز چلنا۔ دوڑنا۔
هَرَاهِرٌ يَهْرَاهِرُ هَرَاهِرًا: ڈنڈے سے مارنا۔
هَرَاهِرٌ تَهْرَاهِرُ تَهْرَاهِرًا: کپڑے کو زور دینا۔
هَرَاهِرٌ تَهْرَاهِرُ تَهْرَاهِرًا: باہم ٹھسنا کرنا۔

الْمَهْرَاهِرُ: کھجور کا پودہ۔
الْمَهْرَاهِرِيُّ: گیوں وغیرہ جمع کرنے کا بڑا مکان ج
اُھزاء۔

هَرَاهِرٌ (ن) هَرَاهِرٌ الشَّيْءُ وَالشَّيْءُ: بلانا۔ مین
عَظْفٌ فَلَانٌ: کام کیلئے اُھزارنا۔ هَرَاهِرٌ الشَّيْءُ سِرًّا
کی وجہ سے جلدی چلنا (— هَرَاهِرٌ الْإِبِلُ:
اونٹ کو حدی سے نشاط میں لانا۔ الْكُوْكُبُ:
ستارہ کا ٹوٹنا۔

هَرَاهِرٌ تَهْرَاهِرُ تَهْرَاهِرًا: بلانا۔
إِهْرَمَعَ بُلْبَانًا — الْإِبِلُ: اونٹ کا حدی کی آواز
سے چلنے میں جمونا۔ إِهْرَمَعَ إِلَيْهِ قَلْبُهُ: خوش ہونا۔
کہا جاتا ہے "هُوَ يَهْرَمَعُ لِلْمَعْرُوفِ" وہ اچھے
اعمال سے خوش ہوتا ہے۔ — الْمَاءُ لِينٌ
چمڑا یا بے پانی کا رواں ہونا۔ الْكُوْكُبُ لِينٌ
إِقْتِضَايَهُ: ستارہ کا جلدی ٹوٹنا۔ — الْأَرْضُ
أَكَا — التَّيْبَاتُ: لہلہانا اور بڑھنا۔

تَهْرَاهِرٌ بُلْبَانًا: جمونا۔
الْمَهْرَاهِرَةُ: ہرہ کا نام مرہ۔ إِمْرَأَةٌ هَرَاهِرَةٌ: برائی سے
خوش ہونے والی عورت۔ جمع نِسَاءُ هَرَاهِرَاتٍ:

نحوہ: کوار وغیرہ کا حرکت کرنا۔
 الہزق: اضطراب۔
 الہزاع: اگیلا۔ کہا جاتا ہے "ماہی الجعْبَة اَلْأَسْفَلِ سَهْمٌ هَزَاعٌ" ترکش میں صرف ایک ہی تیر ہے۔
 الہزاع: شکار کو بہت پھلانے والا شیر۔
 الہزاع: شکار کو بہت پھاڑنے والا شیر۔
 الہزاع مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ یا آدھی یا چوتھائی رات اور بقول بعض رات کی ایک ساعت۔ ہَزَعٌ: الہزاع: بیوقوف۔
 الَاهْرَعُ: ترکش کا آخری تیر عمدہ ہوا خراب۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُ اَهْرَعٌ" اس کے پاس کچھ نہیں "وَمَا لِي فِي الدَّارِ اَهْرَعٌ" گھر میں کوئی نہیں۔ "وَمَا بَقِيَ لِي مِنْ مَتَاعٍ بَعِيْرَكَ اَهْرَعٌ" تمہارے اُونٹ کے کوہان میں بقیہ چربی نہیں۔
 الہزَعَة: خوف، جنگ میں شور۔
 المِهْرَعُ: درختوں کو توڑنے والا۔ کوٹنے کا آلہ۔
 سَهْفٌ مِهْرَعٌ: بہت حرکت کرنے والی کوار۔ فَرَسٌ مِهْرَعٌ: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔
 هَرْقَةُ (ض) هَرْقَا الرَّيْحُ: ہلکا پانا۔ اڑانے جانا۔
 هَرْقٌ (س) هَرْقَا: چست ہونا — فی الصِّحْكِ: بہت ہنسا۔
 اَهْرَقُ فِي الصِّحْكِ: بہت ہنسا۔
 الہزوق: چستی۔ سکی۔ بادل کی تیز گزراہٹ۔
 الہزوق: سخت گرج — مِنَ الرَّجَالِ: بہت ہنسنے والا اور چھامرد۔
 الہزَقَة مِنَ التَّسَاءِ: عورت جس کو ایک جگہ پر قرار نہ ہو۔
 المِهْرَاقُ: چنچل عورت، بہت ہنسنے والی۔
 رَجُلٌ مِهْرَاقٌ: بہت ہنسنے والا اور چھامرد۔
 هَزَلٌ (ن) او هَزَلٌ (س) او هَزَلٌ هَزَلًا وَهَزَلًاو هَزَلًا: کمزور ہونا۔ دپلا ہونا۔ هَزَلْتُ حَالَ فُلَانٍ: تک ہونا (هَزَلٌ جسم کی تشبیہ دیتے ہوئے) کہا جاتا ہے "لَمْ تَلْعَلْ جَزَلٌ وَحَالَ هَزَلٌ" اس کا فضل بہت زیادہ ہے اور حال ہزلا ہے۔
 هَزَلٌ (ض) هَزَلًا فِي كَلَامِهِ: ٹھٹھا کرنا۔

تَهَزَّجَ: سر سے گانا — الصَّوْتُ: پہلے در پہلے ہونا۔ تَهَزَّجَتْ الْقَوُصُ: آواز نکالنا۔
 الرَّعْدُ: ہول کا گزراہٹ۔
 الہزج: مہ۔ بادل کی گزراہٹ۔ ترانہ۔ سر۔
 طرب انگیز آواز۔ ہر کلام جو تماشق ہو، اشعار کی ایک بحر کا نام۔ جانوروں کی ٹانگ پر پڑنے کی سرعت اور تخت۔
 الہزج: طرب انگیز۔ کہا جاتا ہے "مَغْنَى هَزَجٌ"
 طرب انگیز گوتا۔ فَرَسٌ هَزَجٌ: گھوڑا جس کی ٹانگ جلدی اور ہلکی پڑے۔
 الہزج مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ۔
 الَاهْرُوجَةُ: ترنم آبی گیت جع اھانج۔
 هَزَزَةٌ (ض) هَزَزًا بِالْعَصَا: ڈنڈے سے بہت مارنا۔ هَزَزَ الشَّيْءُ: سخت جھپوننا — فُلَانًا: جلا وطن کرنا۔ صفت منقولی مَهْرُورٌ وَهَزِيْرٌ — یہ الَاهْرُصُ: پھیلاڑنا — لِفُلَانٍ: بہت دینا — الرَّجُلُ: ہنسا۔ حاجت کے لیے جلدی کرنا — اَلْبَيْعُ: گرا کرنا۔ قیمت بڑھارنا۔
 الہزار: بیل۔ ہزار داستان جع ہزارات۔
 الہزور: نقصان زدہ۔ بیوقوف۔ سخت۔
 الہزرة والہزرة: نرم زمین جع ہزارات الہزرة: کالی۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ذُو هَزْرَاتٍ" ہر چیز میں نقصان زدہ مرد۔
 رَجُلٌ مِهْرُورٌ: ہر چیز میں نقصان زدہ مرد۔
 هَزْرَفٌ فِي عَدْوِهِ: تیز دوڑنا۔
 الہزراف والہزراف والہزروف والہزروف: تیز رفتار ہلکا پھلکا شتر مرغ۔
 الہزروف: بڑے جسم والا۔
 الہزرفی: بہت حرکت کرنے والا۔
 هَزَعٌ (ف) هَزَعًا: جلدی کرنا — الشَّيْءُ: توڑنا۔
 هَزَعَةٌ تَهْرِيْقًا: کلزے کلزے کرنا۔
 تَهْرَجَ الرَّجُلُ: جلدی کرنا۔ تیوری چڑھانا۔
 لَهٌ: اپنے کو نشانہ دینا۔ تَهْرَجْتَ الْمَرْءَ فِي مَشِيَّتِهِا: ڈنگانا — الْاِبِلُ فِي سَهْرِهِا: اُونٹ کا چلنے ہوئے جھومنا۔
 اِنْتَهَجَ الشَّيْءُ: ٹوٹنا۔
 اِنْتَهَجَ: جلدی کرنا۔ جھرننا — الشَّيْفُ وَ

الہزرة۔ هَزَا كَأَسْمِ نَوْعٍ: نشاہ و شامانی۔ ہانڈی کے جوش کی آواز۔ بادل کی گزراہٹ۔ اُونٹوں کی چال کی ایک قسم۔ انبساط و سلاہ فرحت۔
 الہزیز: مہ۔ بادل کی گزراہٹ۔ ہوا کی سرراہٹ۔
 الہزیز: سختیاں (اس کیلئے واحد نہیں)۔
 المِهْرَةُ وَالمِهْرَةُ: حرکت۔
 هَزَاءٌ تَهْرَاهُ هَزَاءً: توتڑنا۔ هَزَاءٌ اِبِلَةٌ: سردی سے مار ڈالنا — رَاحِلَةٌ: ہلانا۔ هَزَاءٌ زَيْدٌ: خربا۔
 هَزَاوْ هَزِيْرٌ يَهْرَاهُ هَزَاوْ هَزَاوْ وَهَزَاوْ وَهَزْوًا وَمَهْرَاهُ بِفُلَانٍ وَمَهْنٌ: ٹھٹھا کرنا۔
 هَزِيْرٌ (س) هَزْرًا: مرنا۔
 اَهْرَاهُ اَهْرَاهُ: سخت سردی میں داخل ہونا۔
 اِبِلَةٌ: سردی سے مار ڈالنا۔ اَهْرَاتٌ يَهْ ذَابَتْ: جلدی لے جانا۔
 تَهْرَاهُ تَهْرَاهُ او تَهْرَاهُ تَهْرَاهُ او اسْتَهْرَاهُ اسْتَهْرَاهُ: ٹھٹھا کرنا۔
 الہزائی: قا۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ مَفَاذَةٌ هَزَائَةٌ بِالرَّكْبِ وَهَزَاءَةٌ يَهْمٌ" یہ بیابان دشوار گزار ہے۔ "عَدَاهُ هَزَائَةٌ" بہت ٹھنڈی صبح۔
 رَجُلٌ هَزَاءٌ: جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ هَزَاءٌ يَبِيْنُ النَّاسِ" یعنی لوگ اس سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔
 رَجُلٌ هَزَاءٌ لَوْ كُوْنُ مِنْ تَهْرَاهُ كَرْنِ وَالا مِرْدِ: الہزوب: مضبوط و قوی اُونٹ۔ بڑی عمر کا اُونٹ۔ گدھ۔
 الہزوب: مضبوط شیر۔
 هَزِيْرَةٌ: کانا۔
 الہزوب والہزوب والہزوب: شیر۔ الہزوب: مونا۔ مضبوط قوی جع ہزوب۔
 هَزَلٌ هَزَلَةٌ: بہت تھکا ہونا۔
 الہزبلیل: بہت تھوڑا سا۔
 هَزَجٌ (س) هَزَجًا لِمُغْنِي فِي عَنَابِهِ: گوئیے کاسر سے گانا یا پڑھنا۔ بحر ہزج کے اشعار پڑھنا۔
 هَزَجٌ: سر سے گانا — صَوْتُهُ: پہلے در پہلے آواز نکالنا۔
 اَهْرَجَ الشَّاعِرُ: بحر ہزج کے اشعار پڑھنا۔

کلواس کرنا۔ بیودگی کرنا — الذَّائِبَةُ — دولا کرنا۔
اچھی طرح نگہبانی نہ کرنے کی وجہ سے کمزور
کرنا۔ هَزَلِ الْقَوْمُ: ذیلے مویشی والا ہونا —
فُلَانٌ: جانوروں کے مرنے کی وجہ سے محتاج
ہونا۔

هَزَلَةٌ لاغرو دلا کرنا۔
هازل مَهَازِلَةٌ۔ بیودگی کرنا — فُلَانًا: شخصاً
کرنا۔
أَهْزَلَ فُلَانًا: کمزور کرنا (هَزَلٌ میں ایک لغت
ہے مگر زیادہ فصیح نہیں) کھلاڑی پانا — الْقَوْمُ:
ذیلے مویشی والی ہونا۔ سختی اور تنگی کی وجہ سے
اپنے مال کو روک لینا۔

الهَزَالُ: مع۔ لاغری۔ دلا لین۔
الهَزَالَةُ: خوش طبعی۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَتْ
بَيْنَهُمَا هَزَالَةٌ" ان کے درمیان خوش طبعی ہے۔
الهَزَالُ وَالْمَهَازِيلُ: بہت ذیلا۔

الهَزَالِيُّ: شعبہ باز کا فعل۔
الهَزَالِيُّ: بہت سانپ (جمع ہے واحد نہیں)
الهَزَالِيُّ: دولا۔ ج ہزالی۔

الهَزَالِيَّةُ: هَزَالٌ سے اسم مشتق ہے۔ جیسے
سَهْمٌ ہے شَيْخَةٌ۔ پھر هَزَالِيَّةٌ کا اطلاق آدموں
میں ہونے لگا۔ ج هَزَالِيٌّ وَالْمَهَازِيلِيُّ

الهَزَالِيَّةُ: برا جھنڈا۔ کہا جاتا ہے "سَاوُوا
فِيهِمْ هَزَالَةً" وہ لوگ چلے اور ان کے اندر برا
جھنڈا تھا۔

المَهَازِيلُ: لاغر شدہ ج مَهَازِيلُ: اَرْضٌ
مَهَازِيلَةٌ: نرم زمین۔

المَهَازِيلُ: خشک سالیان۔
هَزَلٌ ج هَزَالَةٌ: جلدی کرنا۔

الهَزَالُ ج: جلد باز۔ ہکا پھکا۔ بھیڑنا۔ ج هَزَالِيٌّ
الهَزَالِيَّةُ: مع۔ آوازوں کا شطاب۔ جلدی۔

الهَزَالِيُّ ج: حمر قمار۔
الهَزَالِيَّةُ ج: لاغر سرین والا بھیڑیے کا پتہ جو جو
سے پیدا ہوا ہو۔

هَزَمٌ (ض) هَزَمًا الْعَدُوُّ: دشمن کو شکست دینا
— الشَّىءُ: ہاتھ سے دبا کر گڑھا ڈالنا — فُلَانًا:
ایسی ضرب مارنا کہ سرین سے ناف پر نکل آئے
— الْقَوْمُ: کمان کا آواز دینا — لَهُ حَقَّةٌ: جن

کم کرنا — الْبَيْتُ: کتواں کھودنا — فُلَانًا: قتل
کرنا — هَزَوْنَا اللَّيْلَ: سفیدی صبح کا پھینکا۔
هَزَمْتُ عَلَيْهِ: بہرمان بنانا جانا۔
هَزَمَ الْعَدُوُّ: دشمن کو شکست دینا (تشدید مبالغہ
کے لیے ہے)۔

تَهَزَمَتِ الْقَوْمُ: کمان کا آواز دینا —
الرَّعْدُ: گرجنا — الشُّحْبُ بِالْمَاءِ: آواز کے
ساتھ برستا — الْقَرْبَةُ: شگ کھاخک ہو کر پھینکا۔
تَهَزَمَ الْبِنَاءُ: عمارت کا گریزنا۔ اِنْهَزَمَ: شکست
کھانا۔ الْعَصَا: لاشی کا چڑچڑا کر ٹوٹنا۔ الْجَبِيشُ:
شکست کھانا۔ اِنْهَزَمَتِ السَّحَابَةُ بِالْمَاءِ: آواز
کے ساتھ برستا — الْقَوْمُ: گھوڑے کا چلنا اس
طرح پر کہ آواز سنائی دے۔ اِنْهَزَمَ الشَّاةُ: بکری کو
زنگ کرنا — الشَّىءُ: بہت کرنا۔ جلدی کرنا۔
اِسْتَهَزَمَ الْخَيْوُشُ: شکست دینا۔ شکست چاہنا۔
شکست خورو پانا۔

الهَزَامَةُ: مصیبت ج هَوَازِمُ
الهَزْمُ: مع۔ بہت زمین۔ بغیر پانی کے پتلا بادل ج
هَزْمٌ۔

الهَزْمُ مِنَ الْخَيْلِ: مطح۔ کہا جاتا ہے "فَوْشُ
هَزْمٌ وَفَوْشُ هَزْمٌ الصَّوْبُ" بادل کی گرج کے
مشابہ آواز والا گھوڑا۔ غَيْثٌ هَزْمٌ: موسلا دھار
بارش۔

الهَزْمُ: کمان کی آواز۔
الهَزْمَةُ: اسم مرۃ۔ سینہ کا گڑھا۔ سیب وغیرہ کا
گڑھا جو ہاتھ سے دبانے سے پیدا ہو۔ ہنسی کی
بڑیوں کے درمیان کا گڑھا۔ بہت زمین ج هَزْمٌ وَ
هَزْمٌ وَهَزَمَاتٌ۔ هَزْمٌ الْجَوْفُ: پیٹ میں دانہ
پانی کی جگہ۔

قَدَّرَ هَزْمَةً: بہت اٹنے والی ہانڈی۔
الهَزْمُ: آواز دینے والی کمان۔ کہا جاتا ہے
"فَوْشُ هَزْمٌ بَيْنَةَ الْهَزْمِ" بہت آواز نکالنے والی
کمان۔

الهَزِيمُ: گرج کی آواز۔ گرج۔ سخت آواز والا
گھوڑا۔ غَيْثٌ هَزِيمٌ: نہ رکنے والی بارش جَبِيشٌ
هَزِيمٌ: شکست خورو لکڑ۔

الهَزِيمَةُ: شکست ج هَزَائِمُ: الهَزَائِمُ: بہت
پانی والے کوسیں۔ هَزِيمَةُ الْقَوْمِ: سخت دوڑ

کے وقت ہینے کا لکنا۔

الهَزِيمُ: سخت مضبوط۔ شیر۔

الهَزِيمِيُّ: شکست۔

الْمَهْزِيمُ: نا۔ گرج۔ قَصَبٌ مَهْزِيمٌ وَ مَهْزِيمٌ
ٹوٹا ہوا یا پھٹا ہوا نرکل۔ مِسْقَاءٌ مَهْزِيمٌ وَ مَهْزِيمٌ
باوجود خشک ہونے کے نہ کی ہوئی شگ۔

المِهْزَامُ: کر۔ پٹی۔ چھوٹی لاشی۔ بیٹھی۔ ج
مِهْزَامِيٌّ۔

هَزَمَجٌ هَزْمَجَةٌ: لگاتار گنگو کرنا۔

الهَزَامِجُ: لگاتار آواز۔

هَزَمَرٌ هَزْمَرَةٌ: خوب جھڑکنا۔ عتاب کرنا۔ سختی
کرنا۔

الهَزَامِلُ: آوازیں۔

هَزْمَةٌ هَزْمَةٌ: تابع کرنا۔ هَزْمَةُ الشَّىءِ: بلانا۔
تَهَزَمَ الشَّىءُ: بلانا — اِلَيْهِ قَالِيٌّ: خوشی
سے اچھلا۔

الهَزَاهِزُ: بہت جاری ہونے والا پانی۔ بےحیر
هَزَاهِزٌ: تیز آواز والا اونٹ۔

الهَزَاهِزُ: فتنے جو انسان کو جھڑھڑادیں۔ کہا
جاتا ہے "فُلَانٌ شَهِدَ الْهَزَاهِزَ" ظلال جنگوں اور
تعمیروں میں حاضر ہوا ہے۔

الهَزَاهِزُ: بہت جاری ہونے والا پانی۔ "سَيْفٌ
هَزَاهِزٌ" بہت پیکنے والی صاف تلوار۔

الهَزَاهِزُ: بہت جاری ہونے والا پانی۔ اور کہا
جاتا ہے "مَاءٌ هَزَاهِزٌ وَ هَزَاهِزٌ وَ هَزَاهِزٌ" یعنی
لہریں لینے والا پانی۔ "وَيَبُزُّ هَزْمٌ" گرجا کتواں
"وَعَيْنٌ هَزْمٌ" بہت پانی والا کشادہ چشمہ۔

الهَزْمَةُ: مع۔ جنگ وقت بھڑکانا۔ کہا جاتا ہے
شَهِدَ فُلَانٌ الْهَزْمَةَ فَلَانَ جَبْكَ فتنے میں حاضر
ہوا۔

الهَزْمَةُ: گرو غبار۔

هَزَايَهُزٌ وَ هَزْمٌ: جانا۔ چلنا۔

هَشَّ (ن) هَشًّا الشَّىءُ: بکوتا۔ توڑنا۔

هَشَّ (ض) هَشًّا: دل میں بات کرنا۔ الْكَلَامُ:
چھپانا۔

الهَشِيئِسُ: ریزہ ریزہ کیا ہوا۔ پوشیدہ کلام۔
هَشِيئِسُ الْحَجِّجِ وَ هَشْمَسَهَا: بیابان میں ریتوں
کی آواز۔

هَشَّسَ هَشْسَةً الْمَاءَ: پانی کا لٹا رہنا
— الذَّبْرُغُ أَوْ الخُلْبِيُّ: زرہ یا زیور میں جھنکار
ہونا — الخَدِيثُ: بات چیمانہ۔

تَهَشَّسَ الذَّبْرُغُ أَوْ الخُلْبِيُّ: زرہ یا زیور
میں جھنکار ہونا۔

الهَشَّاسُ: رات میں چلنا۔ هَشَّاهِشَ
النَّاسَ: آہستہ گفتگو۔

الهَشَّاسُ: تمام رات بکریاں چرانے والا
چرواہا۔ کام کے لیے ساری رات بیدار رہنے والا۔
قَصَائِي: غیر مفہوم کلام۔ ووسوسہ۔

الهَشْسِيَّةُ: زرہ یا زرہ کی جھنکار۔ نرم
آواز والی چیز۔

الهَشْدُ: شیر دل برج ہنساد۔

الهَشْوَةُ: خویش واقارب۔

هَشَعٌ (ف) هَشَعًا: جلدی کرنا۔

هَشَّ (ان ض) هَشًّا وَرَقَّ الشَّجَرُ: پتے
جھاڑنا۔

هَشَّ (ض) هَشْوَشَةً الخُبْرُ: روٹی کا نرم ہونا
— الرَّجُلُ: سست و کمزور ہونا۔

هَشَّ (س ض) هَشَّاشَةً وَهَشَّاشًا مَكْرَانًا:
بھلائی پر خوش ہونا۔ شادمان ہونا۔ نشاط میں ہونا۔

کما جاتا ہے "هَشَّسْتُ وَهَشَّسْتُ بَفْلَانٍ وَ
بِفُلَانٍ وَاهْشَّ وَاهْشَّ بِهِ وَهَشَّ" میں فلاں سے
خوش ہوا۔

هَشَّ (س) هَشَّاشَةً وَهَشْوَشًا الشَّيْءُ: نرم
اور ڈھیللا ہونا۔ صفت هَشَّ: لکڑی کا نرم ہونا کہ
جلدی ٹوٹ جائے۔

هَشْسَةٌ: نرم سمجھنا۔ خوش کرنا۔ شادمان بنانا۔

إِهْتَشَّ لِكَذَا: خوش ہونا۔ خواہش مند ہونا۔

إِهْتَشَّ فُلَانٌ بَيْنَ فُلَانٍ: مجھ سے خوش ہوا۔

اسْتَهَشَّهَ: ہلکا سمجھنا۔

خَبْرَ هَشَّاشٍ: نرم روٹی۔

الهَشَّ: نرم ڈھیللا۔ خَبْرَةٌ هَشَّةٌ: نرم

روٹی اور کما جاتا ہے "فُلَانٌ هَشَّ المَكْسَرُ"

فُلَانٍ مَرِيانٍ أَوْ نَرَمٍ عَادَتِ وَاللَّاهُ بِي هَشَّ وَفُلَانٌ

هَشَّ الوَجْهَ" فلاں ہنس کھ ہے اور کما جاتا ہے

"فَرَسٌ هَشَّ" بہت لہیند والا گھوڑا۔ "وَفَرَسٌ

هَشَّ العَيْنَانِ" نرم لگام والا گھوڑا "وَأَنَا بِهِ

هَشَّ" میں اس سے بہت خوش ہوں۔

فَرْزَةٌ هَشَّاشَةٌ: پانی پکانے والی مٹک۔ نَاقَةٌ
هَشْوَشٌ أَوْ شَاةٌ هَشْوَشٌ: بہت دودھ دینے والی
اُونٹنی یا بکری۔

الهَشْيَشُ: مانگنے سے خوش ہونے والا۔ نرم
ڈھیللا ڈھالا۔ توڑا ہوا۔ چورہ کیا ہوا۔

هَشْرُ (ن) هَشْرًا النَّاقَةُ: اُونٹنی کا سارا دودھ
دودھ لینا۔

الهَشْرَمُ: ہلکاپن۔ پتلپن۔

الهَشْوَةُ: آکڑ۔ غرور۔

شَجْرَةٌ هَشْوَةٌ وَهَشْوَزٌ: درخت جس کے
پتے جلدی گرجائیں۔

الهَشْيَرُ مِنَ الرَّجَالِ: نرم کمزور لمبا مرد۔

هَشَّسْتُ تَهَشِيئًا النَّاقَةَ: تھوڑا دودھ اتارنا۔

أَهْشَلُ الرَّجُلِ: سواری کا جانور بغیر مالک کی
اجازت کے دینا۔

إِهْتَشَلُ الفَرَسِ: گھوڑے پر بغیر مالک کی
اجازت کے سوار ہونا۔

الهَشْيَلَةُ: سواری کا جانور جس پر بغیر مالک کی
اجازت کے سوار ہوں — مِنَ الإِبِلِ وَغَيْرِهَا:

غصب کیا ہوا اُونٹ وغیرہ۔

الهَشْيَلَةُ: عمر رسیدہ موٹی اُونٹنی۔

هَشَّمُ (ض) هَشَّمًا الشَّيْءُ: توڑنا۔ کما جاتا ہے

"هَشَّمُ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ" اس نے اپنی قوم کے لیے

روٹی کو توڑ کر شوربے سے تر کر کے ٹرید بنایا۔

صفت هَاشِمٌ۔

هَشَّمُ الشَّيْءِ: توڑنے میں مبالغہ کرنا —

فُلَانًا: اکرام و تعظیم کرنا — النَّاقَةُ: اُونٹنی کو
دوبنا۔

تَهَشَّمُ الشَّيْءُ: ٹوٹنا — الشَّجَرُ: خشک ہو کر

ٹوٹنا — الإِبِلُ: اُونٹ کاست و کمزور ہونا —

فُلَانٌ الشَّيْءُ: توڑنا — الرَّجُلُ: اکرام و تعظیم

کرنا — النَّاقَةُ: اُونٹنی کو دوہنا — زَيْدًا: مہربان

بنانا۔ رضامند کرنا — عَلِيٌّ فُلَانٌ: مہربان ہونا۔

تَهَشَّمَتِ الأَرْضُ: بارش منقطع ہونے سے

زمین کا خشک ہونا۔ کما جاتا ہے "تَهَشَّمَةُ

لِلْمَغْرُوفِ" اس نے اس سے بھلائی طلب کی۔

إِهْتَشَّمُ الشَّيْءُ: ٹوٹنا۔ إِهْتَشَّمَتِ الإِبِلُ:

اُونٹ کاست و کمزور ہونا۔

إِهْتَشَّمُ النَّاقَةَ: اُونٹنی کو دوہنا۔ اور کما جاتا ہے
"إِهْتَشَّمْتُ نَفْسِي لَهْ" میرا نفس اس کے
سامنے مطیع و فرمانبردار ہو گیا اور بغیر انصاف کے
راضی ہو گیا۔

الهَاشِمَةُ: الهَاشِمُ کا مؤنث۔ سر کا زخم جو
بڑی کوتاؤڑے۔

الهَشَامُ: سخاوت۔ بخشش۔

الهَشْمُ: مہ۔ قحط زدہ زمین۔ پست زمین ج

هَشُومٌ۔

الهَشِمُ: سخی۔ فیاض۔

الهَشْمُ: نرم پہاڑ۔ دودھ کے ماہر۔ دوہنے

والے۔ واحد هَاشِمٌ۔

الهَشْمَةُ: هَشْمٌ کا اسم مرۃ۔

الهَشْمَةُ: پھاڑی بکری ج۔ هَشْمَاتٌ۔

الهَشِيمُ: توڑا ہوا۔ ٹوٹی ہوئی خشک گھاس۔

خشک شدہ گھاس یا درخت۔ پہلے سال کی باقی ماندہ

گھاس۔ کما جاتا ہے "نَبْتُ هَشِيمٍ" جیسا کما جاتا

ہے "نَبْتُ عَامِي وَحَطِيمٍ" کمزور بدن والا۔ کما

جاتا ہے "رَجُلٌ هَشِيمٌ" کمزور بدن کا مرد۔ اور

کما جاتا ہے "مَضَارِبُ الأَرْضِ هَشِيمًا" زمین

کے درخت اور گھاس خشک ہو گئے اور ٹوٹ

گئے۔

الهَشِيمَةُ: زمین جس کے درخت خشک

ہو گئے ہوں۔ خشک درخت۔

نَاقَةٌ مَهَشَامٌ: جلدی لاغر ہونے والی اُونٹنی۔

كَلَامٌ هَشِيمٌ: نازک و نرم گھاس۔

هَشَّهَشَ الشَّيْءُ: ہلانا۔

الهَشَّاهُشَ: اچھے اخلاق کا سخی مرد۔

هَاشَاةٌ مَهَاشَاةٌ: ہنسی مذاق کرنا۔

هَضَّ (ن) هَضًّا الشَّيْءُ: روند کر چکنا۔ باریک

کرنا۔ توڑنا۔ انگلیوں سے زور سے دبانا۔ صفت

مفعول هَضِيصٌ وَهَضِيصٌ:

هَضِيصٌ الرَّجُلُ: چکدار آنکھوں والا ہونا

اچھی طرح آنکھیں کھولنا۔ گھورنا۔

أَلْهَاشَةُ: ہاتھی کی آنکھ۔

الهَضُّ: مہ۔ سخت چیز۔

الهَضِيصُ المَهَضِيصُ: روند کر چکی ہوئی

جز- هَصِيصُ النَّارِ: آگ کی چمک۔
هَضَبٌ (ض) هَضَبًا: بجانا۔

هَضَوْرٌ (ض) هَضَوْرًا: هَضَوْرُ الشَّيْءِ وَالشَّيْءُ: کھنچ کر
جھکانا۔ — الْهَضْوَنُ وَالْهَضْوَانُ: شئی کو جھکا کر
توڑنا کہ دونوں نکلے علیحدہ نہ ہوں۔

الشَّيْءُ: توڑنا۔ دُفِعَ: قریب کرنا۔ قَرَبْنَا: قَرَبْنَا:
دبانہ۔ — الْأَسَدُ فَرِيضَةٌ: توڑ دینا۔

إِهْضَرَ وَاهْتَضَرَ: جھکانا۔ مَرَا: کھینچنا جانا۔
إِهْتَضَرَ الْفَضْنَ: جھکا کر توڑنا کہ دونوں نکلے
علیحدہ نہ ہوں۔ إِهْتَضَرَ التَّخْلَةَ: کھجور کے

خوشں کو درست دہوار کرنا۔
تَهَضَّرَتْ غَضَّانُ الشَّجَرَةَ: نکلنا۔

الهِصْرُ وَالهِصْرُ وَالهِصْرُ وَالهِصْرُ وَالهِصْرُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ
وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ وَالهِصَارُ

إِهْضَ الشَّيْءُ: ٹوٹنا۔

أَهْتَضَّ الشَّيْءُ: توڑنا۔ کہا جاتا ہے "أَهْتَضَّ
نَفْسَهُ لِفُلَانٍ" وہ فلاں کے سامنے تاجدار ہو گیا
اور بغیر انصاف کے راضی ہو گیا۔

الْمَهْضَاءُ: لوگوں کی جماعت۔ گھوڑوں کا گلدہ۔
الْمَهْضَاضُ: اسم مبالہ۔ فَحَلَّ مَهْضَاضٌ
جو انوں کی گردن توڑ دینے والا۔

الْمَهْضُضُ: ٹوٹ۔
هَضَبْتُ (ض) هَضَبْنَا السَّمَاءَ: برسا۔ —
السَّمَاءُ الْقَوْمُ: اچھی طرح سے ترک کرنا۔

هَضَبَ الرَّجُلُ: ست چال چلنا۔ — الْقَوْمُ لِي
الْحَدِيثِ: باتوں میں مشغول ہونا اور آواز بلند
کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "إِهْضُوا أَيَا قَوْمٍ" یعنی بات

چیت کرو۔
أَهْضَبَ الْقَوْمَ: بہاڑی چوٹیوں پر اترنا۔
إِهْتَضَبُوا لِي الْحَدِيثِ: باتوں میں مشغول
ہونا اور آواز بلند کرنا۔

إِسْتَهْضَبَ الْجَبَلَ: بہاڑ کا زمین پر پھیلا ہوا
ہونا۔ مستطیل ہونا۔

الهِضْبَةُ: زمین پر پھیلا ہوا بہاڑ۔ اکیلا بہاڑ بہاڑ۔
بلند زمین۔ بارش کی بوچھاڑ۔ ج هَضَبْتُ وَهَضَبْتُ
وَهَضَابٌ وَهَضَابٌ وَجْجَ أَحَاضِبٌ وَجْجُلٌ
هَضْبَةٌ: بہت بولنے والا مرد۔

الهِضْبُ: مضبوط و قوی۔ بہت سینے والا گھوڑا۔
غَنَمٌ هَضْبَةٌ: کم دودھ والی بکری۔
الْأَهْضُوبَةُ مِنَ الْمَطَرِ: بارش کی بوچھاڑ۔ ج
أَحَاضِبٌ۔

رَوْضَةٌ مَهْضُوبَةٌ: بارش سے سیراب باغ۔
هَضْبُ الْمَوَاشِي: اچھی طرح نہ چرانا۔
صَبِيَانٌ هَضْبِيَجٌ: چھوٹے بچے (اس کیلئے واحد
نہیں)

هَضَلٌ (ن ض) هَضَلًا: بِالشَّيْءِ وَالشَّيْءُ: کھنچ کر
بت کرنا۔

أَهْضَلْتُ السَّمَاءَ: برسا۔ — الدَّلْوُ: ڈول کا
کتو میں میں گرا کر پانی سے بھر جانا۔
الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الْمَهْضَلُ: مہ۔ بہت۔
الْمَهْضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الْمَهْضَالُ: حدی گانے والا۔

الهُضْمُ - م - غذا کا زویدن ہونا۔

الهُضْمُ وَالهُضْمُ - پست زمین - یمن وادی ج
أَهْضَامٌ وَهَضْمٌ (۱) - وَالهُضْمُ وَالهُضْمَةُ)
بحرکی ایک قسم۔

الهُضْمُ - غذا کو ہضم کرنے والی چیز۔ يَدْ
هَضْمًا - فِياض ہاتھ۔ ج هَضْمٌ اور کہا جاتا ہے
"فِيئَانِ هَضْمٌ" خرچ کرنے والے جوان۔
"وَزَجَلٌ هَضْمٌ الشَّيْءُ" قحط کے زمانے میں
خرچ کرنے والا مرد۔

الهُضِيمُ - توڑا ہوا۔ امْرَأَةٌ هَضِيمَةٌ: پتلی کر
والی عورت۔ بَطْنٌ هَضِيمٌ: پتلا پیٹ۔ قَضِيَّةٌ
هَضِيمَةٌ: بانسری۔

الهُضِيمَةُ - ظلم۔ غم۔ کھانا جو میت کے بعد
کھلایا جائے۔ ج هَضَامٌ۔
الْأَهْضَامُ - موٹے دانوں والا۔ موٹ
هَضْمَاءُ ج هَضْمٌ - وَأَهْضَمُ الْكُشْحَبِيُّ:
پتلے پیلوں والا۔

الْمُهَضْمَةُ - خشک اور بان سے مرکب ایک
خوشبو۔ قَضِيَّةٌ مُهَضْمَةٌ: بانسری۔ کہا جاتا ہے
"زَيْتُهُ مُنْهَضِمًا" میں نے اس کو غمزہ دیکھا۔
هَاضِفَةٌ مُهَاضِفَةٌ: جو قوف سمجھنا۔ حقیر جانا۔
الْهَضَاةُ - گیسو۔ گردھی۔
الْأَهْضَاءُ - لوگوں کی جماعت۔
هَطْرٌ (ض) هَطْرًا - الْكَلْبُ: لکڑی سے مار
ڈالنا یا مارنا۔

تَهَطَّرْتُ الْبَيْتَ: دیران ہونا۔ گرنا۔ تَهَطَّرَ
الرَّجُلُ: ڈیل ہونا۔
الْهَطْرَةُ - اسم مرؤۃ - غنی کے سامنے سوال کے
وقت فقیر کی زلت۔

تَهَطَّرَسَ الرَّجُلُ: لچک لچک کر چلنا۔
الْهَطَطُ - ہلاک ہونے والے۔

الْأَهْطُ - عمدہ رفتار کا اونٹ۔ موٹ ہٹا۔
هَطَعَ (ف) هَطَعًا وَهَطْرًا: ڈرتے ہوئے

جلدی پیش قدمی کرنا۔ ایک ہی طرف ٹٹکی لگانا۔
أَهْطَعَ - گردن اٹھانا اور سر جھکانا — فی

السَّيْرِ: ڈرے جلدی چلنا۔
إِسْتَهْطَعَ الْعَبْدُ فِي سَبِيحِهِ: اونٹ کا دوڑنا۔
الْهَطِيعُ - کشادہ راستہ۔

نَاقَةٌ هَظْلِيٌّ - تیز رو اونٹنی۔

الْمُهْطِعُ - فاء: زلت اور عاجزی سے ایک ہی
طرف نظر جانے والا۔

هَظْفٌ (ض) هَظْفًا الرَّاعِي: دوہنا۔
السَّمَاءُ: برسنا۔

الهَظْفُ - بہت بارش۔
الهَظْقُ - تیز رفتاری۔

هَظَلٌ (ض) هَظَلًا وَهَظَلَانًا وَتَهَظَلَانًا
الْمَطْرُ: متفرق طریقے سے بڑی بڑی بوندوں والی

لگاتار بارش ہونا۔ صفت مذکر هَاطِلٌ صفت
مؤنث هَاطِلَةٌ ج هَظَلٌ — الْجَزْئِيُّ الْفَرَسُ:

پسینہ برانا۔ هَظَلْتُ النَّاقَةَ: اونٹنی کا آہستہ چال
چلنا۔ هَظَلُ الرَّجُلِ: اپنی ضرورت سے پیدل چل

کر جانا۔ هَظَلْتُ الْعَيْنَ بِالْمَدْمَعِ آسو برانا۔
تَهَظَّلُ الْمَطْرُ: بڑی بوندوں والی لگاتار بارش

ہونا۔
تَهَاطَلُوا: اعلیٰ گدھا۔ ایک دوسرے کے پیچھے
آنا۔

الهَاطِلُ - فاء: سنبھالنا۔
الهَاطَلُ مِنَ الْمَطْرِ وَالسَّحَابِ: زور سے

بڑی بوندوں سے برسنے والی بارش۔
الهَظَلُ - م - لگاتار آہستہ بارش۔ چھکن۔

الهَظَلُ - بھیڑنا۔ چور۔ جو قوف۔
دِيمَةٌ هَظَلٌ: لگاتار بارش۔

الهَظِلُ - بڑی بوندوں کی متفرق لگاتار بارش۔ کہا
جاتا ہے مَطَرٌ هَظِلٌ وَسَحَابٌ هَظِلٌ: کہا جاتا ہے

دِيمَةٌ هَظَلَاءٌ بڑی بوندوں کی متفرق لگاتار
بارش۔ اور "سَحَابٌ أَهْظَلٌ" نہیں بولا جاتا۔

جس طرح "فَرَسٌ ذَوْعَاءٌ" تو کہتے ہیں گمزد کر کے
لیے "أَزْوَعٌ" نہیں کہتے "امْرَأَةٌ حَسَنَاءٌ" تو

بولتے ہیں مگر مرد کو "أَحْسَنٌ" نہیں کہتے۔
نَاقَةٌ هَظْلِيٌّ - آہستہ رو اونٹنی۔ کہا جاتا ہے

"مَسَّتِ الْبَيْتَاءُ هَظْلِيٌّ" یعنی ہریاں آہستہ
چلیں۔ اِبِلٌ هَظْلِيٌّ وَهَظْلِيٌّ بغير ساربان کے

چھوٹے ہونے آؤٹ۔
الهَظْطَلُ - لومڑی۔ الهَظْطَلُ: غازیوں کی ٹھیل

جماعت۔ اور اء النمر کے چند شہروں کا نام۔ ترکوں یا
ہندوستانوں کی ایک قوم جِھَاطِلٌ وَهَيْطِلَةٌ۔

الْمَهْظَلَةُ - جیش یا سبے کی دیکھی (دخیل)
هَظْلَسَ الشَّيْءُ: سارالے لینا۔

تَهَظْلَسُ اللَّيْلُ: چور کا جلد و فریب کرنا۔
الْمَرِيضُ مِنَ عِلَّتِهِ: مریض کا بیماری سے افاتہ

پانا۔ صحت یاب ہونا۔
الْمَهْظَلَسُ وَالْمَهْظَلَسُ: بٹ مار۔ چور۔ بھیڑنا۔

بِزَالِكُمُ
الْمَهْظَلَعُ: بڑا گروہ۔ بے شمار فوج۔ لبا جسیم مرد۔
هَظْلَهْتَ الْفَرَسَ: گھوڑے کا ہنسنا۔

الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ لَبِي الْعَمَلِ: جلدی کرنا۔
الهَظَاهِطُ: گھوڑا۔

هَظَاهِطُو هَظْرًا كَذَا: بھیگانا۔
الهَظِيٌّ: بچھاڑ۔ سخت مار۔

هَقٌّ (ن) هَقًّا وَهَقًّا: تے کرنا۔
هَيَعَزَتْ هَيَعَزَةً وَتَهَيَعَزَتْ الْمَرْأَةُ: چمچل

رہنا۔ ایک جگہ پر آرام و قرار نہ لینا۔
الْهَيَعَزَةُ: بھوت۔ بدکار عورت۔

الْمَهَيَعَزُونَ: مصیبت۔ بہت بڑھیا۔
الْمَهَاغِيَةُ: جو قوف ست عورت۔

هَفَّتْ (ض) هَفًّا وَهَفِيًّا التَّرْبِيعُ: ہوا کا سائیں
سائیں کرنا۔ هَفَّ الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ الشَّيْءُ:

سبک اور چمکدار ہونا۔
اهْتَفَّ السَّرَابُ: سراب کا چمکانا۔

اهْتَفَّتْ أَذُنُهُ: کان کا سائیں سائیں کرنا۔
الهَفُّ: بھینٹی جس کے کانٹے میں ناخبر ہو جائے

اور اس کے دانے بکھر جائیں۔ چھوٹی مچھلیاں۔ مانی
کے بڑے بڑے کالے کیڑے۔ واحد هَفَّةٌ:

والهَفُّ: ہلکا پھلکا مرد۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ هَفٌّ"
کم شہد یا بے شہد کا پھتہ۔ ہر بھلی چیز جس کے

جوف میں کچھ نہ ہو۔ سَحَابٌ هَفٌّ: پتلا بے پانی
کا بادل۔ کہا جاتا ہے "مَا فِي بَيْتِكَ هَفَّةٌ وَلَا

سَفَّةٌ" یعنی تمہارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی
چیز نہیں۔ کہا جاتا ہے هَفَّتْ هَافَةً مِنَ النَّاسِ:

قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کی جماعت آگئی۔
الْمَهْفَافُ: چمکدار۔ مِنَ الْأَجْنِحَةِ: اڑنے

میں ہلکا۔ مِنَ الْقَمْصِيِّ: پتلی شفاف قیص
— مِنَ الْحُمْرِ: سبک و چست۔ مِنَ

الطَّلَالِ: ٹھنڈا سا۔ اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ

<p>الْحُسْنَى فَلَانَا: ایک دن نامہ دے کر بخار آتا۔ اِهْتَمَع الشَّيْءُ فَلَانَا: دوبارہ لوٹ کر آتا۔ اِهْتَفِقَ لَوْنُهُ: خوف یا گھبراہٹ سے رنگ بدل جاتا۔ الْهَفَاغ: غم یا بیماری کی وجہ سے غفلت۔ الْهَفِغ: لالچی۔ مَوْنَتْ هَفِغَةً۔ الْهَفِغَةُ: هَفِغَ كَأَسْمَ مَرَّةٍ: جوڑا کے اوپر تین روشن ستارے جو دیگر ان کے پایہ کے مانند ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ الْهَفِغَةُ: گھوڑے کے سینے کے وسط میں دائرہ۔ الْهَفِغَةُ: لوگوں کے درمیان بہت نیک لگانے والا یا لینے والا۔ الْهَفِغَةُ: تلوار کی جھکار۔ تلوار کی جھکار کی نقل۔ کہا جاتا ہے "سَمِعْتُ لِلشَّيْءِ هَفِغَةً" میں نے تلواروں کی جھکار سنی۔ آواز سننے کے لیے خشک چیز کو خشک چیز پر مارنا یا لوہے کو پتھر سے مارنا۔ الْمَهْفُوع: مہف — مِنْ الْخَيْلِ: سینے کے وسط میں دائرہ رکھنے والا گھوڑا۔ هَفِغَ (ف) هَفُوعًا: بھوک یا بیماری سے ست ہوتا۔ هَفِغَ (س) هَفِغًا: کم بھوک لگنا۔ الْهَاقِلُ: چوہا۔ الْهَقِلُ: جوان شتر مرغ۔ لبا یا یوق۔ مَوْنَتْ هَقْلَةً۔ الْهَقِيلُ: بھوکا۔ الْهَقِيلُ: جوان شتر مرغ۔ گوہ۔ الْهَقِيلَةُ: ایک قسم کی چال۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ يَشْمِسِي الْهَقِيلَةَ"۔ الْهَقْلَسُ: بد خو مرد۔ بھیشیا۔ لومڑی ج هَقَالِسُ۔ هَقَمَ (س) هَقْمًا: بہت بھوکا ہونا۔ صفت هَقِمَ: بہت کھانا اور بد بھشی نہ ہونا۔ تَهَقَّمَهُ: مغلوب کرنا۔ تَهَقَّمَ الطَّعَامَ: بے درپے بڑے بڑے لقمے لگنا۔ الْهَقْمُ: سندر۔ بہت کھانے والا مرد۔ الْهَقْمُ: وسیع سندر۔ سندر کا شوہر۔ هَقِي يَهْقِي هَقِيًا: بکواس کرنا۔ اور کہا جاتا ہے</p>	<p>مُهَفَّفَةٌ هَفَايَهُمْ هَفُوعًا وَهَمُوعًا تَمْرُوثًا — الطَّائِرُ: پر پھڑپھڑانا اور اڑنا — الرَّجُلُ: بھلسنا۔ بھوکا ہونا۔ هَفَّتْ تَهْفُوهُمْ هَفُوعًا وَهَفُوعًا الزَّيْنَةُ وَالصُّوْفَةُ فِي الْهَوَاءِ: پریا دن کا ادھر ادھر اڑنا — الرَّيْحُ بِالصُّوْفَةِ: ہوا کا اُون کو ادھر ادھر اڑانا۔ هَفَا الْقَوَادُ: بول دھر کرنا۔ فریفت ہونا — فَلَانُ: اوجھا ہونا۔ هَفَا الظَّلِيمُ: شتر مرغ کا دوڑنا۔ اور کہا جاتا ہے "هَفَا الْقَلْبُ مِنَ الْخُزْنِ أَوْ مِنَ الظَّرْبِ" دل غم سے پر اُگندہ ہوا یا خوشی سے قابو میں نہیں رہا۔ هَفَاةٌ مُهَفَّاةٌ: خواہش کی طرف مائل کرنا۔ الْهَفَايَةُ: نا۔ بھوکا۔ الْهَفَايَةُ: الْهَفَايَةُ كَأَسْمَ مَرَّةٍ هَوَايَ هَوَايَ الْإِبِلِ: گم شدہ اونٹ۔ الْهَفَا: بارش جو کبھی برسے کبھی رک جائے۔ الْهَفَاءُ: غلٹی۔ لغزش۔ الْهَفَاةُ: بارش۔ زَجَلٌ هَفَاةٌ: یوق مرد۔ الْهَفُوعَةُ: لغزش ج هَفُوعَاتُ۔ الْأَهْفَاءُ: یوق لوگ۔ هَفَى (ض) هَفَا الرَّجُلُ: بھاگنا۔ الْهَفْبُ: فرانی۔ الْهَفْبُ: کشاوہ حلق والا۔ لبا مونا۔ شتر مرغ وغیرہ۔ الْهَفْبِقْبُ: مضبوط قوی۔ الْهَفْقَرَةُ: بکریوں کا درر۔ الْهَفْقُورُ: لبا مونا یوق۔ الْهَفْقُزُ: ایک قسم کا کپڑا سرخ یا سفید اُون کا بنا ہوا جس میں بھی ریشم بھی ملاتے ہیں۔ هَفَقَ (ف) هَفَقًا الْفَرَسُ: گھوڑے کو داغ دینا۔ تَهَقَّقَ الرَّجُلُ عَلَيْنَا: نادالی برتنا۔ تکبر کرنا۔ نعل بیج کار تکاب کرنا۔ تَهَقَّقَ: اونڈھا ہونا۔ اِهْتَفَقَ: الرَّجُلُ: سخت بھوکا ہونا۔ اِهْتَفَقَ: بازر کھانا منج کرنا۔ کہا جاتا ہے "اِهْتَفَقَ فَلَانًا عَزَقُ سُوَيْءٍ" فلاں کو بد اصلی نے عزت و شرافت تک جینچنے سے روک دیا "اِهْتَفَقَتِ</p>	<p>هَفَافُ الْقَمِيصِ "بکا چلا کر۔ الْهَفَافَةُ: الْهَفَافُ كَأَسْمَ مَرَّةٍ: رِنَجٌ هَفَافَةٌ: خوشگوار یا تیز چلنے والی ہوا۔ الْهَفَانُ: نشان قدم۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ عَلَيَّ هَفَانِيَهُ" وہ اس کے نشان قدم پر آیا۔ جَارِيَةٌ مُهَفَّفَةٌ: تلی کروالی لڑکی۔ هَفَّتْ (ض) هَفَّتَا وَهَفَّتَا الشَّيْءُ: سخت کی وجہ سے اڑنا۔ پست ہونا۔ باریک ہونا — الرَّجُلُ: بلا سوچے سمجھے بہت بولنا۔ تَهَافَتَ عَلَيَّ الشَّيْءُ: لگا تار کرنا (اکثر اس کا استعمال شرمیں ہوتا ہے) — الْفَرَاشُ عَلَيَّ التَّارُ: پروانہ کا آگ میں گرنا — النَّاسُ عَلَيَّ الْمَاءُ: جوم کرنا — الْقَوْمُ: مرکز کرنا — الْقَوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اِنْفَهَتَ الشَّيْءُ: پست ہونا۔ ذلیل ہونا۔ الْهَفَاتُ: یوق۔ الْهَفَّتُ: مہ۔ پست زمین۔ بہت یوقی۔ کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنا۔ الْهَفَّتُ مِنْ الْمَطَرِ: جلدی برسنے والی بارش — مِنْ الْكَلَامِ: بلا سوچ و سمجھ کے بہت گفتگو۔ الْهَفِيفَةُ مِنَ النَّاسِ: بھوک یا سختی کے بارے ہوئے لوگ۔ الْمَهْفُوتُ: حیران۔ تَهَفَكَ: اضطراب کے ساتھ ست چال چلنا۔ الْمَتَهَفِكُ: نا۔ اضطراب کے ساتھ ست چال چلنے والا (— وَالْمَتَهَفِكُ) بہت غلٹی اور گزبوی کرنے والا۔ هَفِيفٌ هَفِيفَةٌ الرَّجُلُ: لاغر اندام و نازک ہونا — الشَّيْءُ: ہلکا۔ تَهْفَهْفَةُ الرَّجُلِ: لاغر اندام و نازک ہونا۔ ظَلَّ هَفِيفٌ: ٹھنڈا سایہ جس میں ہوا چل رہی ہو۔ الْهَفْهَافُ: تپتے پیٹ والا۔ پیاسا — مِنْ الْقَمِيصِ وَالْأَجْنِحَةِ: پتلا و شفاف۔ ظَلَّ هَفْهَافٌ: ٹھنڈا سایہ جس میں ہوا چل رہی ہو۔ عُرْفَةٌ هَفْهَافَةٌ: سایہ دار ٹھنڈا چھوڑ کر۔ الْمَهْفَهْفُ: تپتے پیٹ باریک کرد والا مَوْنَتْ</p>
--	--	---

”فَلَانٌ يَهْفِي بِفَلَانٍ“ فلاں فلاں کے ساتھ یک
بک کرتا ہے — فَلَانًا: گلی رہتا — فَوَادُهُ:
ول پر اگندہ ہوتا۔

أَهْقَاهُ أَهْقَاءً: خراب کرتا۔

هَكَ (ن) هَكَأً: گوز کرتا — الظَّائِرُ: پرندہ کا
بیٹ کرتا — التَّغَامُ: شتر مرغ کا پستانہ کرنا —

الشَّيْ: پینا۔ صفت مفعول مَهْكُوكٌ و
مَهْكِيكٌ. هَكَةٌ بِالزَّمْعِ: پیاپے نیزہ مارنا۔

هَكَةٌ بِالسِّنْفِ: تلوار مارنا هَكَتِ التَّيْبُذُ
فَلَانًا: مست کرتا — اللَّيْنُ: دودھ نکالنا —

فَلَانًا: لاغر کرنا — النَّجَارُ: الخَزَقُ: بڑھی کا
سوراخ کو اشارہ کرنا — النَّجَارِيَّةُ: بہت جماع

کرتا۔ هَكَتِ البُتْرُ: کتوس کا گرجانا۔
هَكَ الشَّيْ: گرایا جانا۔

تَهَكَّتِ الرَّجُلُ: مضطرب ہونا۔
الْأُنْفَى: قریب الولادہ ہونے کی وجہ سے تھن کا

پڑا ہونا۔
إِنَّهَكَ البُعِيْرُ: بیٹنے کے وقت زمین سے چٹنا

— الرَّجُلُ: مست ہونا۔ إِنَّهَكَتِ البُتْرُ:
کتوس کا گرجانا۔ کہا جاتا ہے ”مَا بَنَهَكَ يَفْعَلُ“

کذا“ وہ ہمیشہ ایسا کرتا رہا۔
الهَكُّ: مہ۔ فاسد العقل ج هَكَكَةٌ و

أَهْكَاكٌ: سخت بارش۔
الهَكُّوكُ: ہنسی مذاق کرنے والا۔ کمزور کینہ۔

أَحْمَقُ هَاكٌ: انتہائی بیوقوف۔ کہا جاتا ہے
”رَجُلٌ هَكَكٌ بِالْكَلَامِ“: غلط کلام کو صحیح سمجھ

کرونے والا۔
الهَكُّوكُ: مونا۔ ہنسی مذاق کرنے والا۔ سخت

جگہ۔ اور بقوس بعض نرم جگہ۔
الهَكِيكُ: سپاہی ہوا۔ نمٹ۔

المَهْكُوكُ: مفع۔ کلام میں ہنسی مذاق کرنے
والا۔ سبزا۔

الشَّهْكَةُ: دشواری سے بچنے والی عورت۔
هَكَبٌ (ض) هَكَبِيهٌ: ٹھٹھا کرنا۔

هَكَدَ عَلَى غَرِيْمِه: قرض دار پر سختی کرتا۔
هَكَزٌ (ض) وَهَكَزٌ (س) هَكَوًا وَهَكَوًا

وَهَكَزًا مِنْ كَذَا: سخت متعجب ہونا۔
هَكَزٌ (س) هَكَوًا وَهَكَوًا: او گھٹنا۔

تَهَكَّرَ: تعجب کرتا۔ حیران ہونا۔

الهَكْبُ: متعجب (و الهَكْرُ) اوجھنے والا۔ کہا
جاتا ہے مَا فَيِهْ مَهَكْرًا أَوْ مَهَكْرَةً: اس میں کوئی

تعجب نہیں۔
الهَكَارِسُ: مینڈکیں۔

هَكَعٌ (ف) هَكَوَعًا: ٹھہرتا۔ مطمئن ہونا۔
هَكَعَتِ البَقْرُ تَحْتَ الشَّجَرِ: سخت گرمی میں

درخت کے نیچے سایہ لینا — الرَّجُلُ: اتامت
کرتا۔ کہا جاتا ہے ”ذَهَبَ فَلَانٌ فَمَا يَذُرُّ مِنْ أَيْنِ

سَكَعٍ وَأَيْنِ هَكَعٍ“ فلاں گیا نہیں معلوم ہے کہ
کس طرف گیا اور کہاں اتامت کی۔ هَكَعَ اللَّيْلُ

تاریکی پھیلائی — فَلَانٌ بِالْقَوْمِ وَالْيَ القَوْمِ شام
ہونے کے بعد قوم کے پاس واپس آنا —

الرَّجُلُ: غم یا غصہ سے سر جھکانا — أَلَى
الْأَرْضِ: اونڈھا ہونا — عَظْمَةٌ: ورستی کے بعد

ٹوٹنا۔
هَكَعٌ (س) هَكَعًا وَهَكَعًا: مطبوع ہونا۔ گھبراتا۔

عاجزی کرتا۔
الهَكَاعُ: کھانسی۔ محسن کے بعد کی نیند۔

الهَكَوَعُ: درخت کے نیچے سایہ لینے والی گایوں
کارپوز۔

الهَكَعَةُ: بیوقوف۔
هَكَفٌ (ف) هَكَفًا: تیز چلنا۔

هَكَلٌ تَهَكِيْلًا: الحِصَانُ أَوْ المَرْوَأَةُ:
گھوڑے یا عورت کا ٹھٹھاتے ہوئے چلنا۔

تَهَاكَلُ القَوْمِ: کسی معاملہ میں جھگڑنا۔
هَيْكَلُ الرُّزْغِ: کھیتی کا بڑھتا اور لمبا ہونا۔

الهَيْكَلُ: لمبی اور بڑی بناات یا درخت واحد
هَيْكَلَةٌ: بلند عمارت۔ مونا (ہر جاندار) گرجا میں

قربان گاہ۔ صورت۔ بیکر۔ مجسمہ ج هَيْكَلِ فَوْشِ
هَيْكَلٌ: بلند گھوڑا۔

هَكَمٌ تَهَكِيْمًا فَلَانًا وَفَلَانًا: کسی کیلئے گانا۔
تَهَكَمَتِ البُتْرُ وَنَحْوَهَا: کتوس کا گرجانا۔

تَهَكَمَ فَلَانًا وَفَلَانًا: ٹھٹھا کرنا — زَيْدًا:
پیاپے نیزہ مارنا — الرَّجُلُ: جھوٹی مغرورانہ چال

چلنا اور ہر چیز میں مقدر سے بڑھ جانا۔ تَهَكَمَ
عَلَى فَلَانٍ: سخت غصہ بناک ہونا — عَلَى الْأَمْرِ

الْقَانِيَتِ: نادم ہونا — الْمَطْرُ: ناقابل برداشت

بارش ہونا — فَلَانًا: گانا — فِلَانًا: کسی کے
لئے گانا — فِلَانًا: بہت یاد کرنا۔

الهَيْكَمُ: لایین امور میں چھٹنے والا۔ شریر۔
الْأَهْكُومَةُ: ٹھٹھا۔ استہزاء۔

المُتَهَكِمُ وَالْمُسْتَهَكِمُ: مغرور۔
تَهَكَّنَ عَلَى الْأَمْرِ الْقَانِيَتِ: نادم ہونا۔

هَكَأَ: خاکاؤہ مہاکاؤہ۔ اپنی عقل کو عاجز و
ناکام سمجھنا۔

الْأَهْكَاءُ: حیران لوگ۔
هَلٌّ: حرف استفہام یعنی کیا جیسے ”هَلْ طَلَعَ

النَّهَارُ“ کیان نکل آیا۔ اور ”هَلْ“ نسبت انکسالیہ
کے لیے مخصوص ہے جیسے ”هَلْ قَامَ زَيْدٌ“ اور

هَلْ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ“ نہیں کہا جاتا۔ اور اگر نسبت
سلیبہ سے استفہام مقصود ہو تو مزہ لاتے ہیں اور

هَلْ ایسے اسم پر بھی داخل نہیں ہوتا جس کے بعد
فعل ہو اسی لیے ”هَلْ قَامَ زَيْدٌ“ اور هَلْ زَيْدٌ

قَانِيَمٌ“ کتنا جاز ہے مگر ”هَلْ زَيْدٌ قَامَ“ کتنا جائز
نہیں۔

اور هَلْ جملہ شرطیہ پر بھی داخل نہیں ہوتا اس
وجہ سے کہ اس میں استجاب و نفی دونوں کا احتمال

ہے اور اس جملہ پر بھی داخل نہیں ہوتا جس پر
إِنْ حرف تحقیق داخل ہو اس لیے کہ اِنْ تقریر

واقع کے لیے آتا ہے اور هَلْ استفہام کے لیے
اور اِنْ دونوں میں منافات ہے۔ اسی وجہ سے

”هَلْ إِنْ قَامَ زَيْدٌ نَقِمْتُ“ اور ”هَلْ إِنْ زَيْدًا قَانِيَمٌ“
کتنا جائز نہیں۔ بخلاف امزہ کے کہ یہ استفہام

میں اصل ہے اور اس میں بڑی وسعت ہے۔
اور هَلْ جب مضارع پر داخل ہو تو استقبال

کے لئے خاص کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے هَلْ
بِتَذَهَبِ الْآنَ کتنا جائز نہیں۔

هَلْ (ن) هَلًا الْمَطْرُ: زور سے برسا —
الهَلَانُ: نیا چاند لگانا — هَلْ الشُّهُوُ: مینہ

شروع ہونا — الرَّجُلُ: خوش ہونا۔ چلانا۔
هَلَلٌ تَهْلِيلًا: تسبیح پڑھنا۔ هَلَلُوا (عبرانی کلمہ

ہے جس کے معنی ہیں ”پروردگار کی تسبیح پڑھو۔“
کسنا (دخیل) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کسنا۔ اور یہ هَيْلَلَةٌ سے

ماخوذ ہے جیسے بِسْمَلَةَ بِسْمِ اللَّهِ پڑھنا اور
حَوْقَلَةٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کسنا۔ کہا جاتا

ہے "سَبَّحَ فَلَانَ وَهَلَّلَ" فلاں نے سبح پر می اور لا الہ الا اللہ۔ کہا۔ وَهَلَّلَ الرَّجُلُ: بزدل ہوا۔ ہمانا — عَنْ فَرْبِهِ: پیچھے ہٹنا — عَنْ شَيْئِهِ: گال دینے سے رک جانا۔ ہٹ جانا — الْكِتَابِ: لکنا۔

هَلَّ جَلالاً وَمُهالَةً الْأَجْمِزُ: درماہہ اجرت مقرر کرنا۔ تم کہتے ہو "تَكَادَبَتْهُ مَهالَةٌ" یعنی ایک چاند سے دوسرے چاند تک جیسا کہ "فَشَاهِرَةٌ" یعنی ایک مہینہ سے دوسرے مہینہ تک۔

أَهَلَ الْهَلالَ: نیا چاند لکنا — الشَّهْرُ مہینہ شروع ہوا۔ أَهَلَ الْقَوْمَ الْهَلالَ: چاند دیکھتے وقت آواز بلند کرنا — الصَّيِّ: بچے کا رونے میں آواز بلند کرنا — الرَّجُلُ: نیا چاند دیکھنا — الشَّيْفُ بفلانٍ: تلوار کا کاٹنا — الْفَطَشانُ: پیاسے کا قھوک جمع ہونے کے لیے زبان کو تالو سے ملانا — اللُّهُ الشَّحابُ: برساتا —

الشَّهْرُ: مہینہ کا چاند دیکھنا الْمَلْتَبِيُّ: تلبیر کے وقت آواز بلند کرنا — فَلانٌ يَذْكُرُ اللّٰهَ: کسی نعمت یا کسی عجیب چیز کو دیکھ کر اللہ کے ذکر میں آواز بلند کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَهَلَ بِالشَّيْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ" اس نے ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا۔

أَهَلَ الْهَلالَ: نیا چاند لکنا — الشَّهْرُ مہینہ شروع ہوا۔

تَهَلَّلَ الْوَجْهَ وَالشَّحَابَ: چمک اٹھنا۔ — فَلانٌ: خوشی سے دکتے ہوئے چہرے والا ہونا۔ تَهَلَّلَتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا۔ تَهَلَّلَتِ دُمُوعُهُ: آنسو بہنا۔

انْهَلَّ الْمَطَرُ: زور سے آواز کے ساتھ بارش ہونا۔ انْهَلَّتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا — السَّمَاءُ بِالْمَطَرِ: برساتا۔

انْهَلَّ الْوَجْهَ وَالشَّحَابَ: چمک اٹھنا — الرَّجُلُ: ہنسنے میں دانت ظاہر کرنا — الْمَطَرُ: زور سے آواز کے ساتھ برساتا۔

اسْتَهَلَّ الْمَطَرُ: زور سے آواز کے ساتھ برساتا — السَّمَاءُ: پھلکی بارش برساتا — الْقَوْمُ الْهَلالَ: نیا چاند دیکھنا — الشَّهْرُ: مہینہ شروع ہونا — الشَّهْرُ: مہینہ کا نیا چاند دیکھنا —

الْوَجْهَ: خوشی سے دکتا اٹھنا — الصَّيِّ: پیدائش کے وقت چلانا۔ اور ایسا ہی ہر لونے والے کے آواز بلند کرنے کو استہلال کہتے ہیں۔ وَاسْتَهَلَّتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا۔

اسْتَهَلَّ الْهَلالَ: نیا چاند لکنا۔ اسْتَهَلَّ الشَّيْفُ: سوتا جانا۔

الْهَلالَ: مصدر هالٌ کا نیا چاند۔ شروع مہینہ کی دو راتوں یا تین راتوں یا سات راتوں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ اور مہینہ کی آخری دو راتوں چھ مہینوں اور ستائیسویں کے چاند کو بھی۔ اور ان کے علاوہ کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔

وَالْهَلالَ عِنْدَ أَهْلِ الْهَيْتَةِ: پہلی رات کا چاند الْهَلالَ: تھوڑا پانی۔ شکار کو زخمی کرنے کا لہا۔ سانپ۔ اور بقول بعض ز سانپ۔ سانپ کی کینچلی۔ جو تے کا تسمہ۔ ویلا اونٹ۔ غبار۔ ناخن کی بڑ کی سفیدی۔ اونٹ کا نشان۔ خوبصورت لڑکا۔ چکل وغیرہ کا نشانہ جبکہ ٹوٹ جائے۔ ہلچل بارش۔ جِ أَهْلَةً أَوْ أَهْلِيلًا (نادر)

الْأَهْلِيلُ: بارشیں۔ اس کے لیے واحد نہیں یا اس کا واحد اهلول ہے۔

الْهَلالَ: پھلکی بارش۔ الْهَللُ: ہمہ باریکہ بال۔ کپڑا۔

الْهَللُ: نموداری۔ ماہ نو۔ کہا جاتا ہے "أَتَيْتُهُ فِي هَلِّ الشَّهْرِ" میں اس کے پاس نئے چاند طلوع ہونے کے وقت آیا۔

الْهَللُ: خوف۔ ڈر۔ کہا جاتا ہے "هَلَلَ فَلانٌ هَللاً" فلاں خوف کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ پھلکی بارش۔ کھڑی کاجالا۔ بارشیں۔ واحد هَلَّةٌ۔

هَللاً: کلرہ مخصوص دستہ ہم ہے۔ مرکب ہے هَلٌّ وَلَا سَ۔ اگر ماضی پر داخل ہو تو ترک فعل پر ملامت کے لیے جیسے هَللاً آمَنْتَ یعنی تم ایمان کیوں نہیں لائے۔ اور اگر مضارع پر داخل ہو تو برا گیند کرنے کیلئے جیسے "هَللاً تَوْمِنُ" تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو۔

الْهَلِّيُّ: خوشی جو غم کے بعد حاصل ہو۔ الْهَلَّةُ: هَلٌّ کا اسم مرۃ۔ هَلَّلَ کا واحد۔ چراغ دان۔ اور کہا جاتا ہے "أَتَيْتُهُ فِي هَلَّةِ الْقَمَرِ" میں اس کے پاس چاند کے طلوع کے وقت آیا اور ہا

أَصَابَ هَلَّةً اس نے کچھ نہیں پایا۔

الْهَللُ: بارشیں۔ واحد هَلَّةٌ۔ اور کہا جاتا ہے "جَاءَ نَا فَلانٌ فَلَمَّ نَائِنًا بِهَلَّةٍ وَلَا بِلَّةٍ" فلاں ہمارے پاس آیا اور کچھ نہیں لایا۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ بِهَلْيَانٍ وَبِذِي هَلْيَانٍ" وہ گیا اور نہیں معلوم کہاں گیا ہے۔

هَلَّلُونَا: عبرانی کلمہ ہے جس کے معنی ہیں "پروردگار کی تسبیح پڑھو۔"

الْهَلْيَلَةُ: زمین جس پر بارش ہوئی ہو اور اگر دربارش نہ ہوئی ہو۔

الْمَهْلَلُ: فا۔ وہ شخص جو اپنے ہسر پر حملہ کرے پھر بزدلی کی وجہ سے ہٹ جائے۔

إِبِلٌ مَهْلَلَةٌ: بے لے اور جھکے ہوئے اونٹ۔

الْمَهْلَلُ: چمکا ہوا۔

هَلْبَةُ (ض) هَلْبَانَا: کسی کے بال اکھیرتا هَلْبُ ذَنْبِ الْقَوْمِ: گھوڑے کی دم کو کاٹنا هَلْبَتِ السَّمَاءِ الْقَوْمِ: تر کرنا۔ یا لگا تار برساتا —

الْقَوْمِ: گھوڑے کا لگا تار دوڑنا۔ فَلانٌ الْقَوْمِ بِلَسَانِهِ: بھوکرنا۔ گالی دینا۔

هَلْبُ (س) هَلْبَانَا: بہت بالوں والا ہونا۔ أَهْلَبُ الْقَوْمِ: گھوڑے کا لگا تار دوڑنا۔

أَهْلَبَتِ السَّمَاءُ الْقَوْمِ: تر کرنا۔ تَهَلَّبَ وَانْهَلَّبَ الشَّهْرُ: بال اکھڑا ہوا ہونا۔

انْهَلَّبَ السَّيْفُ مِنْ عُنْدِهِ: تلوار کو میان سے سوتنا۔

لَيْلَةٌ هَالِيَةٌ: بارش والی رات۔ الْهَلْبُ: بال۔ پھلکیں۔ اور بقول بعض موٹی پھلکیں۔ اور بقول بعض دم کے بال اور بقول بعض سورا کے بال۔ واحد هَلْبَةٌ۔

الْهَلْبُ: بہت بالوں والا۔ الْهَلْبُ: بہت بالوں والا۔ بے بال والا۔ ذَنْبُ الْهَلْبِ: کبلی ہوئی دم۔ عاماً اَهْلَبُ بہت بارش والا سال۔ سرسبز سال۔ عیش اَهْلَبُ: کشادہ آسودہ زندگی۔

الْهَلْبَاءُ: الْاَهْلَبُ کا مؤنث۔ رَقَبَةُ هَلْبَاءُ بہت بالوں والی گردن۔ کہا جاتا ہے "وَقَفْنَا فِي هَلْبَةِ هَلْبَاءٍ" ہم بڑی سخت مصیبت میں پڑ گئے۔ الْهَلْبَةُ: هَلْبُ کا واحد۔ پیرو۔ ایک ستارہ۔

هَلْبَةُ الشَّهْرِ: مینے کا آخر۔ هَلْبَةُ الشَّيْءِ او الزَّمَانِ: جاڑے یا زمانے کی سختی۔
 الهَلْبَاب: اسم مبالغہ۔ بہت بھوکے والے۔
 بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا۔ عَامٌ هَلَّابٌ: بہت بارش والا سال۔ يَوْمٌ هَلَّابٌ: ہوا اور بارش کا دن۔ الهَلَّابُ وَالْهَلْبَابُ وَالْمُهَلَّبُ: جنوری کے مینے میں بہت ٹھنڈے چند دن۔
 الهَلْبَابَةُ: بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا۔
 الْأَهْلُوبُ: فن۔ طریقہ۔ اسلوب ج آہالیب۔
 هَلْبَةُ الشَّيْءِ او الزَّمَانِ: جاڑے یا زمانہ کی شدت۔
 فَرَسٌ مَهْلُوبٌ: دم کٹا گھوڑا۔
 المَهْلَبُ: بھوکا ہوا۔
 المَهْلَبُوتُ: کم فہم۔ بیوقوف۔ کلام کرنے میں عاجز۔
 المَهْلَبُجُ وَالْمَهْلَابِجُ: گاڑھا دودھ۔
 المَهْلَبَجَةُ: بیوقوف۔ بہت کھانے والا۔ گاڑھا دودھ۔
 المَهْلَسُ وَالْمَهْلَسِيْنِسُ: کوئی۔ کہا جاتا ہے "مَا فِي الدَّارِ هَلْسٌ وَهَلْسِيْنِسٌ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔ المَهْلَسِيْنِسُ وَالْمَهْلَسِيْنِسَةُ کپڑا۔ کہا جاتا ہے "مَا عَلَيْهِ هَلْسِيْنِسٌ وَهَلْسِيْنِسَةُ" اس کے اوپر کپڑا نہیں۔
 هَلْسِيْنِسٌ وَهَلْسِيْنِسَةُ: توڑی چیز۔
 المَهْلَبِجُ: کھانے کا برادریں۔ بھیڑنا۔
 هَلَّتْ (ان) هَلَّتَا الشَّيْءُ: چھیلنا۔
 انْهَلَّتْ: چھیلنا۔ اور کہا جاتا ہے "انْهَلَّتْ يَغْدُو" وہ دوڑتا ہوا اٹھک گیا۔
 الهَلَّاتُ: ڈھیلان۔
 المَهْلَسُ وَالْمَهْلَسَاءُ وَالْمَهْلَسَاءُ وَالْمَهْلَسَاءَةُ وَالْمَهْلَسَاءَةُ: شور مچانے والی جماعت۔
 الهَلَّاءُ وَالْمَهْلَسَاءَةُ: ڈھیلان۔
 هَلَجَ (ض) هَلَجَا: ناقابل یقین خبریں دینا۔
 أَهْلَجَ الشَّيْءُ: پوشیدہ کرنا۔
 المَهْلَجُ: خواب ہائے پریشان دیکھنے والا۔
 المَهْلَجُ: مہ۔ ناقابل یقین خبریں۔ بگلی نیند (و المَهْلَجُ خواب ہائے پریشان۔
 المَهْلَجُ: ایک خاردار درخت۔

المَهْلَجَابُ: بڑی رنگ۔
 هَلْدَانُ (ن) هَلْدَانُ الوَعْلُ النَّاسِ: بخار چڑھنا۔
 الهَلْدِمُ: پوشیدہ گئی ہوئی چادر۔ سونا مندر۔
 تَهَلَّوْا الزَّجْلُ: دراصل سینٹا۔ چوکس ہونا۔ چاق و چوبند ہونا۔
 هَلْسَةُ (ض) هَلْسَتَا الصَّرَاضُ: لاغر کر دینا۔
 هَلْسُ: سل کی بیماری لاحق ہو کر عمل زائل ہونا۔ صفت مَهْلُوشٌ۔
 هَلْسُ الزَّجْلِ: لاغر ہونا۔
 هَالَسَةُ مَهَالَسَةٌ: چپکے چپکے باتیں کرنا۔
 أَهْلَسَ: آہستہ آہستہ ہنسا۔ — الْحَدِيثُ: پوشیدہ کرنا۔ — إِلَى فُلَانٍ: چپکے سے کہنا۔
 الْمَهْرَضُ: فُلَانًا: گلارینا۔
 الهَالِيسُ: فابولے تلے جسم والا۔ ج هَوَالِيسُ۔
 الهَالِيسُ: سل کی بیماری۔
 الهَالِسُ: مہ۔ خیر شیر ڈبلا پن۔ پتلا پن۔ سل کی بیماری۔
 الهَالِسُ: مرض سے لاغر شدہ لوگ۔ کمزور لوگ۔
 چاہے مرض سے لاغر نہ ہوں۔
 المَهْلُوسُ: مفع۔ وَجَلَّ مَهْلُوسٌ الْعَقْلُ وَ مَهْلُوسَةٌ: اسلوب العقل۔
 ظَلَامٌ مَهْلِسٌ: مدہم اندھیرا۔
 هَلَضَ (ن) هَلَضَا الشَّيْءُ: کھینچ کر اٹھینا۔
 الهَلْظَةُ: افواہی خبر جس کی تصدیق ہو نہ کذب۔
 المَهَالِطُ: لٹکے ہوئے پیٹ والا۔ گنجان سمجھی۔
 هَلَجَ (س) هَلَجَا: بے صبری سے شور۔ صفت هَلَجٌ وَهَلُوجٌ: بھوکا ہونا۔
 المَهْلَجُ: لاپٹی۔
 المَهَالِجُ: فابولے خالیج: تیز رفتار شرمخ۔ کہا جاتا ہے "تَعَامَةُ هَالِجَةٌ وَهَالِجٌ" ج هَوَالِجُ شَحٌّ هَالِجٌ: غم انگیز شدت۔ بگل۔
 المَهْلَجُ: ٹمکن۔
 المَهْلَجُ: مہ۔ (و المَهْلَجُ وَالْمَهْلَعَانُ) متبادل کے وقت بڑولی۔
 المَهْلَعَةُ: جلد گھبرانے والا۔
 المَهْلُوعُ: گھبرانے والا۔ ڈر پوک۔ لاپٹی و بخیل۔
 مَصَابِجُ: مہرزدہ کر سکنے والا۔

المَهْلَبِغُ: ایک چھوٹا رندہ جانور۔ یا زریسی۔
 المَهْلُوفُ: بھاری بھر کم سخت بدن والا۔ بڑی ڈاڑھی والا۔ بہت بالوں والا۔ گھنی ڈاڑھی۔ ابر اکود دن جس میں آفتاب نہ نکلے۔ بہت اون والا بوڑھا اونٹ۔ جنگلی سور۔
 المَهْلُوفُ: بہت بوڑھا۔ جموٹا۔
 المَهْلُوفَةُ: بہت جموٹا۔ گھنی ڈاڑھی۔ بڑھیا۔
 المَهْلُوفُ: سخت بدن اور بہت بالوں والا۔
 هَلَقَ (ض) هَلَقَا وَتَهَلَّقُ: جلدی کرنا۔
 هَلَقَمَ الشَّيْءُ: لگانا۔
 المَهْلِقَامُ: لہبا۔ موٹا۔ شیر۔ چوڑی ہاتھوں کا اونٹ وغیرہ۔ (و المَهْلِقَمُ) بڑا فیاض سردار جو لوگوں کی دیت وغیرہ کو اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہو۔
 المَهْلِقَامُ وَالْمَهْلِقَمَةُ وَالْمَهْلِقَامَةُ وَالْمَهْلِقَامَةُ: بہت کھانے والا۔
 المَهْلِقِمُ: قوی۔ چوڑی ہاتھوں والا۔ بڑی عورت۔ اور بڑے سمندر کو "بَحْرٌ مَهْلِقِمٌ" کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہر چیز کو نگل لیتا ہے۔
 هَلَكٌ (ض) ف (س) هَلَكَا وَهَلَكَا وَهَلُوكَا وَتَهَلَّوْكَا وَهَلُوكَا وَتَهَلَّوْكَا وَهَلُوكَا وَتَهَلَّوْكَا وَهَلُوكَا وَتَهَلَّوْكَا: الاخیرین: فنا ہونا۔ مرنا۔ نیست و نابود ہونا (عموماً اس کا استعمال بڑی موت کے لیے ہوتا ہے) (و هَلَكَا) اَلْيَوْمِ عَلَيَّ: لاپٹی ہونا۔ بہت خواہش مند ہونا۔
 هَلَكَةٌ وَاهْلَكَةٌ: فنا کرنا۔ نیست و نابود کرنا۔ اگر کوئی شخص کسی بڑے کام کو کرے تو اس سے "هَلَكْتُ وَاهْلَكْتُ" کہا جاتا ہے اَهْلَكُ الصَّانُ: بیچنا۔
 تَهَلَّقُ فِي مَشْيِهِ: منگ کر چلنا۔
 فِي الْمَفَاوِجِ: بیابان میں آوارہ و حیران پھرنا۔
 تَهَلَّكَ عَلَى الْفَوَاحِشِ: ہستے پر گرنا۔
 فِي مَشْيِهِ: منگ کر چلنا۔ — عَلَى الشَّيْءِ: بہت خواہشمند ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَنَا مَهْلَكٌ فِي مُؤَدَّتِكَ" میں تمہاری دوستی کا بہت خواہش مند ہوں۔
 فِي الْأَمْرِ وَالْعَدْوِ: کوشش کرنا۔
 أَنْهَلَكَ وَأَهْلَكَ: اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا۔ اور کہا جاتا ہے "مَنْزِلَةٌ لِي عَدُوٌّ" وہ

گزارا اس حال میں کہ دوڑنے میں کوشش کر رہا تھا۔

إِسْتَهْلِكُهُ. ہلاک کرنا۔ اِسْتَهْلِكُ الْمَالَ: مال خرچ کرنا۔ ختم کرنا۔ فی الْأَمْرِ: جلدی کرتے ہوئے کوشش کرنا۔

الْهَالِكُ: فاجِ هَلِكِي وَهَلِكِ وَهَلَاكٍ وَهَوَالِكٍ (اور یہ شاذ ہے جیسے فَوَارِسٍ وَتَوَاكِسٍ)

الْهَالِكَةُ: الْهَالِكِ كَمَا مَوْنَتْ: نفسِ حَرِيصٍ۔ الْهَالِكِيُّ: لوبار (ہالک بن عمرو بن اسد بن خزیمہ کی جانب منسوب کہ لوباری کا نام اسی نے شروع کیا تھا)

الْهَلِكُ وَالْهَلِكُ: ہلاکت۔ تم کہتے ہو "لَا ذَهَبَ لِي مِمَّا مَلَكَتْ وَامَّا مَلَكَتْ" یعنی میں جاؤں گا یا تو تختِ نصیب ہو گیا نکتہ۔ الْهَالُوکُ: سگھیا۔

الْهَلِكُ: قحطِ سَالِي كَيْ سَالٍ۔ وَاحِدٌ هَلِكَةٌ۔ مَرَدَارُ كِي لَاشٍ۔ پھاڑ کی چوٹی اوزد اوسن گادر میانی حصہ۔ دو چیزوں کے درمیان کی فضا۔ گرنے والی چیز۔

الْهَلِكُ: ہلاک ہونے والا نفس۔ الْهَلِكَاءُ: ہلاکت۔ تاکید کے لیے "هَلِكَةٌ" هَلِكَاءٌ: بولا جاتا ہے۔

الْهَلِكَةُ: هَلِكٌ كَا اسْمِ نَوْعٍ۔ مَرْنَةُ وَالِي جِ هَلِكٌ۔ کما جاتا ہے "فَلَانٌ هَلِكَةٌ مِنَ الْهَلِكِ" الْهَلِكَةُ: ہلاکت۔ الْهَلِكُ کا واحد جِ هَلِكَاتٌ۔

الْهَالِكُ: قَهْرَاءٌ۔ چارہ پانی تلاش کرنے والے لوگ جو راستہ کھو چکے ہوں۔

الْهَلِكُونُ وَالْهَلِكُونَ: قحطِ زَوْهٍ زَمِينٍ اِغْرَچِ پَانِي اِسْمِ مِمْ هُوَ اِلْكِي زَمِينٍ جِسْ پَرَايِكِ زَمَانِ وَرَاژِ سِ بَارَشِ نِ هَوِي هُو۔

الْهَلُوکُ: بَدِ كَارِ عَمْرَتِ جِ هَلِكٍ۔ التَّهْلُكَةُ: ہر وہ چیز جس کا انجام ہلاکت ہو۔ التَّهْلُوكُ: ہلاکت۔

أَهْلَكَ النَّاسِ: لوگوں میں زیادہ ہلاک ہونے والا۔

المهتلک: وہ شخص جس کی تمنا یہی ہو کہ

کسی کا سمان بنے۔ مفت خور۔

المهتلکون: چارہ پانی تلاش کرنے والے جو راستہ کھو چکے ہوں۔

المهتلکة والمهتلکة والمهتلکة: ہلاکت کی جگہ۔ بیابانِ جِ مهتلک۔ المهتلک: لڑائیاں۔ کما جاتا ہے "ظَرِيقٌ مُسْتَهْلِكُ الْوَرْدِ" دشوار گزار تھا کہ دینے والا راستہ۔

أَهْلَمُ بِفُلَانٍ: بلانا۔ پکارنا۔ الْهَلْمُ: وَحِيلًا۔ کما جاتا ہے "وَجُلٌ هَلْمٌ وَامْرَأَةٌ هَلْمَةٌ"۔

الْهَلْمُ: هَلْمٌ كَا جَوَابٍ۔ جب کوئی شخص مطیع ہو جائے تو کہا کرتے ہیں "جَادَ بِهَلْمِهِ" الْهَلْمُ: پناہی ہرنیاں۔

هَلْمٌ: آؤ۔ لازم ہے اور کبھی متعدی مستعمل ہوتا ہے۔ جیسے "هَلْمٌ شَهَادَةٌ كُمْ" یعنی اپنے گواہوں کو حاضر کرو۔ اور یہ اسمائے افعال میں سے ہے جس میں واحد جمع نہ کر مونت سب مساوی ہیں اور اس کی تشریح اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کو فعل قرار دیتے ہیں اور اس کے آخر میں حاضر لاقن کرتے ہیں۔ غنی کے لیے هَلْمًا مَوْنَتْ کے لیے هَلْمِي۔ جمع مذکر کے لیے هَلْمُونُ اور جمع مؤنث کے لیے هَلْمُنَّ۔ یہی خیال اکثر عرب کا ہے اور پہلا صبح ہے۔

اور کبھی لام لگایا جاتا ہے تو کما جاتا ہے هَلْمٌ لَلْکِ وَ هَلْمٌ لَلْکَمَا۔ اور کبھی نون ثنیدہ لاقن ہوتا ہے جیسے هَلْمُنَّ يَازِجُلٍ وَ هَلْمُنَّ يَا امْرَأَةَ۔ وَ هَلْمَانِ يَا زِجْلَانِي وَ يَا امْرَأَاتَانِي وَ هَلْمُنَّ يَا رِجَالٍ وَ هَلْمُنَّانِي يَا نِسْوَةَ۔

الْهَلَامُ: اِيكٌ قِسْمٌ كَا كَهَانَا جِ مَجْمُوعِ كَيْ مِمْ شِمْتِ مَعِ پُوسْتِ كَيْ تَارِ كَمَا جَاتَا۔ سبکباج کا شور با جس کو ٹھنڈا کر کے روغن سے صاف کر دیا گیا ہو۔ الْهَلِيمُ: چکنے والا۔

الْهَيْلَمَانُ وَالْهَيْلِمَانُ وَالْهَيْلَمَانُ: ہست چیز اور بقول بعض خیر کثیر۔ کما جاتا ہے "جَاءَنَا بِالْهَيْلِ وَ الْهَيْلَمَانِ" وہ ہمارے پاس ہست مال لے کر آیا۔ هَلْمَمٌ هَلْمَمَةٌ بِفُلَانٍ: کسی کو هَلْمَمٌ کہہ کے پکارنا۔

هَلْمَلٌ التَّشَاخُ الثَّوْبِ: کپڑے کو پارک بنا دینا۔

الضَّوْتُ: گلے میں آواز بھرانا۔ الضَّوْرُ: شجرِ عمرہ بنا نا۔ بغیر اصلاح و تہذیب کے جیسا کما ہو ویسا ہی بنا دینا۔

الزَّجْلُ فِي الْأَمْرِ: انتظار کرنا۔ دیر کرنا۔ الضَّجِينُ: آنے کو پارک چھاننا۔ غنِ الشَّيْءِ: واپس ہونا۔ لوثنا۔ بقضیہ: ہلا کہہ کے ڈانٹنا۔ اور کما جاتا ہے "هَلْمَلٌ يَنْدِرُكَةً" یعنی کما ڈیند رکتہ۔

الْهَلَاهِلُ وَالْهَلْهَالُ وَالْهَلْهَالُ: عمرہ شعریا پارک کپڑا۔ الْهَلَاهِلُ: ہست اور صاف پانی۔ وَالْهَلْهَالُ: خراب بنا ہوا کپڑا۔

الْهَلْهَالُ: برف۔ هَلَاةٌ مُمَهَّلَةٌ لَآءٌ: جھگڑا کرنا۔

الْهَالِي: هَالِي كَا مَقْلُوبٍ۔ یعنی ہولناک۔ هَلَا: گھوڑوں کے لیے کلمہ زجر۔ حَيْهَلًا: دیکھو مادہ ح ی۔

الْهَيْلَمَانُ: اِيكٌ قِسْمٌ كِي نَزَمٌ گھاس ہے جو کھائی جاتی ہے جس کو فارسی میں مارچوبہ و مارگیوہ اور ہندی میں ناگدون کہتے ہیں۔ واحد هَيْلَمَانَةٌ۔

هَمَّ (ن) هَمًّا وَ مَهْمَةً: الْأَمْرُ فُلَانًا: رنجیدہ کرنا۔ عَمَلِينَ کرنا۔ السَّقْمُ جِسْمَةً: بیماری کا جسم کو کھلانا۔ فُلَانًا الشَّخْمُ: چربی کو کھلانا۔ السَّقْمُ الشَّلْحُ: آفتاب کا برف کو کھلانا۔

الْمَبْنُ: دودھ دوہنا (هَمًّا بِالشَّيْءِ ارادہ کرنا۔ چاہتا۔ چنتہ ارادہ کرنا۔ اور کما جاتا ہے "وَلَقَعَتِ السُّوسَةُ فِي الطَّعَامِ فَهَمَّتْ"۔ فہم میں گھن پڑ گئے اور غلہ کے گوڈے کو کھا کر کھو کھلا کر دیا۔

هَمَّ (ن) هُمُومَةٌ وَ هَمَامَةٌ الرَّجُلُ: ہست بوڑھا ہونا۔ هَمَّتْ (ض) هَمًّا وَ هَمِيمًا خِشْيَاشِ الْأَرْضِ: زمین کے کپڑے کوڑوں کا رنگنا۔

هَمَّتِ الْمَرْؤَةُ فِي رَأْسِ الصَّبِيِّ: بوری سے سلانا۔ جوں نکالنا۔

أَهَمَّ الشَّيْخُ: ہست بوڑھا ہونا۔ الْأَمْرُ فُلَانًا: رنجیدہ کرنا۔ غم میں ڈالنا۔ کما جاتا ہے "أَهَمَّهُ الْأَمْرُ حَتَّى هَمَّهُ" اس کو معاملے نے عَمَلِينَ کیا یہاں تک کہ کھلادیا۔

الْهَلْمَلُ: ہست چیز اور بقول بعض خیر کثیر۔ کما جاتا ہے "جَاءَنَا بِالْهَيْلِ وَ الْهَيْلَمَانِ" وہ ہمارے پاس ہست مال لے کر آیا۔ هَلْمَمٌ هَلْمَمَةٌ بِفُلَانٍ: کسی کو هَلْمَمٌ کہہ کے پکارنا۔

هَلْمَلٌ التَّشَاخُ الثَّوْبِ: کپڑے کو پارک بنا دینا۔

تَهَمَّتِ الشَّيْءَ: تلاش کرنا۔ ڈھونڈنا
— زَانَسَةٌ: جوئیں نکالنا۔

إِنهَمَّتِ الشَّمِيخُ: بہت بوڑھا ہونا — الشَّحْمُ
او النَّبْذُ: بگھلنا۔ گھلنا — العَوْرَقُ فِي جَبِيْنِهِ:
بیسٹہ بننا۔ اِنهَمَّتِ النَّبْذُ: ہاتھوں میں پکایا
جانا۔

اِهْتَمَّ الرَّجُلُ: غمگین ہونا — لَهُ بِأَمْرِهِ
اہتمام کرنا۔

اسْتَهَمَّتْ بِالْأَمْرِ وَفِي الْأَمْرِ: متوجہ کرنا۔
مشغول ہونے کی خواہش کرنا۔ اِسْتَهَمَّتْ فَلَانَ
امور قوم میں ممت اٹھانا۔

الِهَامَةُ: ہرزہ بردار کبڑا جیسے سانپ وغیرہ۔ ج
هَوَامٌ: اور کبھی هَوَامٌ کا اطلاق ان کیڑوں پر بھی
ہوتا ہے جو زہردار نہیں۔ جیسے حدیث میں ہے
”أَيُّؤَذِيْنِكَ هَوَامٌ وَاسِيْنٌ“ کہ یہاں پر هَوَامٌ
زاس سے مراد جوئیں ہیں۔

الهَمَامُ: عالی ہمت بادشاہ۔ ہمار خلی سردار
(مردوں ہی کے لیے مخصوص ہے) شیر — مِنْ
الْفَلْحِ او الشَّحْمِ: پگھلی ہوئی برف یا چربی ج
ہمام۔

الهَمَمُ: عزم هَمُوْمٌ: ارادہ۔ جس کا ارادہ کیا
جائے یا جس کے کرنے کیلئے فکر کی جائے اور کہا
جاتا ہے ”هَذَا رَجُلٌ هَمَكٌ مِنْ رَجُلٍ“ یہ
فحص تمہارے لیے فلاں شخص سے کافی ہے۔
”وهذا رَجُلٌ هَمٌ“ یعنی یہ شخص صاحب ہمت
ہے۔

الهَمَّةُ: پیر فرقت ج اَهْمَامٌ: ڈبلا پتلا۔ قَدْحٌ
هَمٌّ: ٹوٹا ہوا اترنا یا لہ۔

الهَمَامُ: کرگزرنے والا آدمی۔ چغل خور۔
الهَمَّةُ: پیر فرقت۔ بہت بڑھیا۔ ج هَمَاتٌ و
هَمَاتِيْمٌ۔

الهَمَّةُ وَالْهَمَّةَةُ: بہت۔ قصد۔ ارادہ۔ خواہش۔
ابتدائے عزم۔ عزم قوی۔ کہا جاتا ہے ”لَهُ هَمَّةٌ
عَالِيَةٌ وَهُوَ يَبْعُدُ الْهَمَّةَةَ“ ج هَمَمٌ: اور کہا جاتا
ہے ”هُوَ رَجُلٌ هَمَكٌ مِنْ رَجُلٍ“ یہ شخص
تمہارے لیے فلاں شخص سے کافی ہے۔

— سَخَابَةٌ هَمُوْمٌ: بارش برسانے والا بادل۔
بِنُوْ هَمُوْمٌ: بہت پانی والا کتواں۔ نَاقَةٌ هَمُوْمٌ:

خوش رفتار اونٹنی۔ اور کہا جاتا ہے ”قَصَبٌ
هَمُوْمٌ“ نرکل جس کو ہوا ہلا دے۔

الهَمِيْمُ: نرم رفتاری۔ سرایت۔ کہا جاتا ہے
”لِلشَّرَابِ هَمِيْمٌ فِي الْعِظَامِ“ شراب کا اثر
ہڈیوں تک میں ہے۔ — مِنْ الْمَنْظَرِ: ہلکی بارش۔
الهَمِيْمَةُ: پھولی پھولی بوندوں کی آہستہ بارش
ج هَمَاتِيْمٌ۔

التَّهَمِيْمُ: مہ۔ ہلکی بارش۔
المَهْمُ: فہ۔ شدید معاملہ۔ مشغول کرنے والا
معالجہ۔ ج مَهْمَامٌ۔

الفَهْمَةُ: مؤنث المَهْمُ ج مَهْمَاتٌ۔
المَهْمَاتُ مِنَ الْأُمُوْر: سخت اور اہم امور۔ کہا
جاتا ہے ”لَا مَهْمَةَ لِي بِذَلِكَ“ یعنی مجھے نہ تو اس کا
قصد ہے نہ کروں گا۔

المَهْمُوْمُ: مہم۔ غمگین۔ بگھلنا ہوا۔
هَمًّا يَهْمَانَا هَمًّا النَّوْبُ: کبڑا کھینچ کر پھاڑنا۔

بوسیدہ کرنا۔ اَهْمَأُ النَّوْبُ: کبڑا پھاڑنا اور بوسیدہ
کرنا۔

اِنهَمًّا وَ تَهَمًّا النَّوْبُ: کبڑا پھٹنا اور بوسیدہ
ہونا۔

الهَمُّ: پرانا بوسیدہ کبڑا ج اَهْمَاءُ۔
هَمَّتْ (ان) هَمَّتَا النَّبْذُ: بچکانی سے تر ہونا۔

اَهَمَّتِ الْكَلَامُ او الصَّخْطُ: آہستہ آہستہ
باتیں کرنا۔ پچکے پچکے بننا۔

هَمَجَّتْ (ان) هَمَجْنَا الْاِبِلَ مِنَ الْمَاءِ: ایک
ہی مرتبہ پانی پی کر سیراب ہونا۔ صفت هَوَامِيَجٌ)
— هَمَجًا: بھوکا ہونا۔

اَهْمَجَ الْقَرْنُ: دوڑنے میں کوشش کرنا۔
— الشَّيْءُ: بوسیدہ کرنا۔

اِهْتَمَجَ الرَّجُلُ: کرگزر ہونا — وَجْهَةٌ بِمَرْمَرَةٍ
ہونا۔

الهَامِيَجُ: انبوہ جس کا کوئی قاعدہ نہ ہو۔ بے
چرواہے کے ریوڑ۔ بے افسر کے فوج اور ”هَمَجَ
هَامِيَجٌ“ کا اطلاق کینے لوگوں پر ہوتا ہے اور یہ بطور
تاکید ہے جیسے ”لَيْلٌ لَانِيْلٌ“ میں۔

الهَمَجُ: مہ۔ بھوک۔ بدانتظامی۔ ایک قسم کا
پھمڑ۔ پھولی قسم کی کبھی جو جانوروں کے منہ اور
آنکھ پر بیٹھتی ہیں۔ ذیلی بکری۔ وَاحِدٌ هَمَجَةٌ۔

الهَمَجُ: بیوقوف لوگ۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ
هَمَجٌ وَهَمَجَةٌ وَ امْرَأَةٌ هَمَجَةٌ وَ رَجُلٌ
هَمَجٌ وَ قَوْمٌ هَمَجٌ“ : ناکارے لوگ۔ ج
اَهْمَاَجُ۔

الهَمَجِيْعُ مِنَ الطَّبَايَا: جوان خوبصورت ہرن
— مِنَ الرَّجَالِ: پچکے ہوئے پیٹ والا۔

هَمَدَتْ (ان) هَمُوْدًا النَّازُ: دھیمی ہونا۔ بگھلنا۔
هَمَدَ الْقَوْمُ: مرنا۔ کہا جاتا ہے ”كَأَدْبَهُمْ مِنْ
الْخَوْعِ“ وہ بھوک سے قریب المرگ ہے صفت
هَآ هِدٌ وَ هَمِيْدٌ وَ هَمِيْدٌ۔ هَمَدَتْ اَصْوَاتُهُمْ
خاموش ہونا۔ آواز بند ہونا۔

هَمَدَتْ (ان) هَمَدًا وَ هَمُوْدًا النَّوْبُ: پڑانے
ہونے کی وجہ سے تموں پر سے پھٹنا۔ صفت
هَآ هِدٌ ج هَمِيْدٌ۔ هَمَدَتْ الْأَرْضُ: خیر ہونا۔
اور ہونا۔ هَمَدَ شَجَرًا الْأَرْضُ: درخت کا پڑنا
ہو کر ضائع ہونا۔

هَمَدَةٌ: بگھلنا۔

اَهْمَدٌ فِي الْمَكَانِ: اقامت کرنا — فِي
السَّيْرِ: تیز چلنا — الْكَلْبُ: تیز دوڑنا۔

الْقَوْمُ فِي الطَّعَامِ: کھانے پر ٹوٹ پڑنا۔
اَهْمَدَتِ الرَّيْحُ: ہوا کا ٹھہرنا — الْهَدِيَّةُ
غَضَبِيَّةٌ: غصہ فرو کرنا۔ بگھلنا۔ اَهْمَدَ فَلَانَ:
ناگوار چیز پر خاموش رہنا — اَصْوَاتُ الْقَوْمِ:
خاموش ہونا۔ آواز بند ہونا۔

الْفَحْطُ الْأَرْضُ: خشک کرنا۔ کہا جاتا ہے
”أَبْوَأُ عَلَى قَوْمٍ فَاهْمَدُوْهُمْ“ وہ لوگ قوم کے
پاس آئے اور ان کو مار ڈالا۔

الهَامِيْدُ: فہ۔ پرانا کالا سفیر شدہ۔ خشک نہایت و
درخت۔ عَجْرَزِيْنٌ ج هَوَامِيْدُ۔

الهَمِيْدَةُ: سکتہ۔

الهَمِيْدُ: وہ مال جو کسی کے ذمہ حکومت کے
وقار میں لکھا ہو۔

الهَمَادِيُّ: تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے ”اِنَّمَا لَدُوْ
هَمَادِيُّ فِي حَبْرَةٍ“ وہ چلنے میں تیز رفتار ہے۔
تیز رفتار اونٹ یا اونٹنی۔ بارش کی شدت۔ گرمی
کی سختی۔

هَمْدَانٌ: ایک شہر کا نام جو مملکت ایران میں
ہے۔

وسوسہ ڈالنا — بِالْقَدَمِ — آہستہ قدم رکھنا —
الزَّجَلُ: بغیر سستی کے رات میں چلنا۔

هَامِسَةٌ مَهَامِسَةٌ: چپکے چپکے باتیں کرنا۔
تَهَامِسًا: باہم چپکے چپکے باتیں کرنا۔ کہا جاتا ہے
”تَهَامِسُوا بَعْضًا“ انہوں نے رازدارانہ باتیں
کیں۔

الهِمْسُ: ہم۔ پست آواز۔ آہستہ قدم۔ کہا جاتا
ہے ”هُوَ تَهَامِسٌ الْأَرْضَ هَمْسًا“ وہ زمین پر آہستہ
قدم سے چلتا ہے۔ ”وَيَتَكَلَّمُ هَمْسًا“ وہ آہستہ
بولتا ہے۔ ”هُوَ يَأْكُلُ هَمْسًا“ وہ کھانے میں مُد
نہیں کھولتا ”وَآخَذَهُ أَخَذًا هَمْسًا“ میں نے
اس کو سختی سے پکڑا۔

الهِمَّاسُ: اسم مبالغہ۔ شکار کو پھاڑنے والا شیر۔
الهِمَّوسُ: رات میں چلنے والا۔ شکار کو پھاڑنے
والا شیر۔ آہستہ قدم سے چلنے والا شیر
الهِمَّيْسُ: آہستہ چال۔ اونٹ کے پاؤں کی
آہست۔

المَهْمُوسُ: سفہ — مِنَ الْكَلَامِ: غیر واضح
— مِنَ الْخُرُوفِ: ضد مجبورہ — اور حروف
مہموسہ دس ہیں جن کا مجموعہ ”حَقَّةٌ شَخْصٌ
فَسَكَّتٌ“ ہے۔

المَهْمَيْسَعُ: بہت مضبوط و قوی آدمی جس کو
کوئی پھاڑ نہ سکے۔

هَمْسٌ (ن) هَمْسًا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔
فُلَانًا: دانت سے کانٹا۔

هَمْسٌ (ض) هَمْسًا وَهَمْسًا (س) هَمْسًا
الزَّجَلُ: بہت بک بک کرنا۔

الْقَوْمُ: بولنا اور حرکت میں آنا — الْجُرَادُ:
بڈیوں کا ظاہر ہونے کے لیے حرکت کرنا۔

هَامِسَةٌ مَهَامِسَةٌ: جلدی کرنا۔
تَهَمَّشَ مَتَّبِعًا الشَّرَّ: کونہیں کے سوت کا
جاری ہونا — الشَّيْءُ: کھوکھلا ہونا۔

تَهَامَشَ الْقَوْمُ: مخلوط ہونا اور آگے پیچھے
ہونا۔ اِهْتَمَشَتِ الدَّابَّةُ وَالْجُرَادُ: آہستہ چلنا۔
ریٹکانا۔

الهِمَامِشُ: فا۔ کتاب کا حاشیہ (مولد)

تَهَمَّشَ الْقَوْمُ: حرکت میں آنا۔ اور اسم
الهِمَّوشة۔

الهِمَّوشُ: حرکت۔
الهِمَّوشُ: بہت بڑھیا۔ بہت دودھ والی اونٹنی۔

هَمَّزَةٌ (ن ض) هَمَّزًا: دبانہ۔ جھینپنا۔ چھوٹا۔ رفع
کرنا۔ مارنا۔ دانت سے کانٹا۔ پٹوہ پیچھے غیبت کرنا۔

صفت هَمَّازٌ وَ هَمَّزَةٌ: تُوَزُّنَ هَمَّزُ الشَّيْطَانِ
الْإِنْسَانِ: شیطان کا وسوسہ ڈالنا — یہ
الْأَرْضُ: بیجاڑنا — الْفَرَسُ: گھوڑے کو دوڑنے
کے لیے تمیز چھوٹا۔

العَيْبُ أَوْ رَأْسُهُ: نچوڑنا — الْكَلِمَةُ أَوْ
الْحَرْفُ: ہمزہ کے ساتھ بولنا یا ہمزہ کی علامت
لگانا۔

الهِمَّزَاتُ الْكَلِمَةُ أَوْ الْحَرْفُ: ہمزہ کے ساتھ
پڑھا جاتا ہمزہ کی علامت والا ہوتا۔

الهِمَّازُ: فا۔ عیب گیری کرنے والا۔ ج هُمَّا
زَوْهَامُزُونَ۔

الهِمَّزُ: ہم۔ هَمَّزُ الشَّيْطَانِ: جنون۔ کہا جاتا
ہے: رَفَعَ هَمَّزِي: تیز آواز والی ہوا ”قَوْمٌ
هَمَّزِي“ زور سے تیر بھیجنے والی کمان۔

الهِمَّزَةُ: هَمَّزُ كَأَسْمَاءَ: حروف بجا کا حرف۔
ج هَمَّزَاتُ هَمَّزَاتِ الشَّيْطَانِ: شیطان
خطرے۔

الهِمَّزَةُ: عیب جو۔ نکتہ چیں۔ کہا جاتا ہے
”زَجَلٌ هَمَّزَةٌ وَامْرَأَةٌ هَمَّزَةٌ“ عیب جو مرد۔
عیب جو عورت۔

الهِمَّازُ: عیب جو۔ طعن تشنیع کرنے والا۔
قَوْمٌ هَمَّزُونَ: زور سے تیر بھیجنے والی کمان۔

زَجَلٌ هَمَّزٌ الْقَذَاؤُ: تیز طبیعت مرد۔
المِهْمَزُ وَالمِهْمَازُ: تمیز ج مہامز و
مہامیز۔

المِهْمَزَةُ: چابک تازیانہ۔ ڈنڈا جس کے سرے
پر لوہا لگا ہو۔ اور جانور کے تیز کرنے کے لیے کام
میں لایا جائے۔

هَمَّسَ (ض) هَمَّسًا الصَّوْتُ: آواز کو پست
کرنا — اَلْحَى بِحَدِيثِهِ: آہستہ آہستہ باتیں کرنا

— الْعَيْبُ: انکسور کو نچوڑنا — الشَّيْءُ: تُوَزُّنَا —
الْقَلْعَامُ: مُدٌ بَدْرٌ كَرَّكَ جَبَانًا — الشَّيْطَانُ:

الهِمَّذَانِي: ہمدان کی جانب منسوب۔ بہت
بولنے والا — مِنَ الْمَشْيِ: مختلف چالیں چلانا۔
کہا جاتا ہے ”هُوَ يَفْشِي هَمَّذَانِيًا“ وہ مختلف
چالیں چلتا ہے۔

هَمَّزٌ (ن) هَمَّزًا: الماءُ: پانی گرانہ —
المَاءُ: پانی گرانہ۔ بنا۔ کہا جاتا ہے ”هَمَّزَتِ
الْعَيْنُ بِالذَّمْعِ“ آنکھ نے آنسو بہایا۔ هَمَّزَ مَافِي
الصَّرْعِ: سارا ٹھن روہ لینا — الْكَلَامُ وَهُوَ
الْكَلَامُ: بہت بولنا — الْفَرَسُ الْأَرْضُ
گھوڑے کا سخت ٹھوکریں مارنا — اِلْفَلَانِ مِنْ
مَالِهِ: زینا — الْبِنَاءُ: عمارت ڈھانا۔

هَامَزَةٌ مَهَامَزَةٌ الشَّيْءُ: کل لے لینا۔
اِنْتَهَمَزَ الْمَاءُ: پانی بنا — الشَّجَرَةُ:
جھڑے ہوئے پتوں والا ہوتا — الْبِنَاءُ: عمارت
گرانہ۔ ویران ہونا۔ سہارا ہونا۔

اِهْتَمَّزَ الْقَوْمُ: گھوڑے کا دوڑنا —
الْقَوْمُ الْأَرْضُ: گھوڑے کا سخت ٹھوکریں
مارنا۔

الهِمَّازُ: فا۔ سَحَابٌ هَامِزٌ: خوب برسنے والا
بار۔

الهِمَّزُ: مونا مرد۔ زَمَلٌ هَمِزٌ: بہت ریت۔
الهِمَّزَةُ: هَمَّزُ كَأَسْمَاءَ: بوجھار۔ غصہ سے
منگٹھو کرنا۔

الهِمَّازُ مِنَ السَّحَابِ: بہت برسانے والا
بار۔ — مِنَ الزَّجَالِ: بہت بک بک کرنے
والا۔

المِهْمَزُ وَالمِهْمَازُ: بہت بڑھیا۔ ظَنِي هَمِيزٌ:
اتنے بدن والی ہرنی۔

المِهْمَزُ وَالمِهْمَازُ: بہت بک بک کرنے
والا۔ المِهْمَازُ: مہماؤں کی بہت زیادت کرنے
والا۔

المِهْمُوزُ: بہت بک بک کرنے والا۔ بہت
ریت۔

هَمَّزٌ عَلَيْهِ الْخَبَرُ: گزیر خبر بیان کرنا۔
الهِمَّزَجَةُ: خبر میں گزیر ہوی۔ اختلاط۔ سخت۔

سرعت۔ لوگوں کا شور۔ یا صل۔
الهِمَّزَجَلُ: تیز رفتار اونٹ اونٹنی۔

المِهْمَزَجَانُ: لوگوں کا شور۔

رفتار آوی جو سختی سے قدم ڈالے۔ بھیڑنا۔
 هَمَلَقَ هَمَلَقَةً۔ تیز چلنا۔
 هَمَمْتُمْ هَمَمَةً۔ آہستہ ہونا۔ غم کی وجہ سے
 آواز کو سینہ میں پھرانا — الزَّغْدُ: ہول کا گرجنا۔
 الهَمَامُ: ہماور تخی سردار۔ شیر۔
 الهَمَامَةُ وَالْهَمَامَةُ: آواز کا پورا پورا۔
 هَمَامٌ: مٹی علی الکر: اسم فعل بخسنے کچھ باقی
 نہیں۔

الهَمَامَةُ: ہم۔ گائے ہاتھی وغیرہ کی آواز۔ ہر
 آواز جس میں کچھ گلوگرتکی ہوج ہمنامہ۔
 الهَمَامُومُ وَالْهَمَامُومُ: شیر۔ الهَمَامُومُ: آواز
 لگانے والا۔ ہوا کی وجہ سے ہٹنے والا پالس۔
 الهَمَامُومُ: ریگننے والا گدھا۔

هَمَامٌ يَهْمُو هَمَامًا هَمَامًا او الدَّفْعُ: بخسنے
 هَمِي يَهْمِي
 هَمِي يَهْمِي هَمِيًا وَهَمِيًا وَهَمِيًا نَمَامًا او
 الدَّفْعُ: پانی یا آسو ہرنا۔ جاری ہونا۔ هَمِيَتِ
 الْعَيْنُ: آسو ہرنا — المَاشِيَةُ: جانوروں کا
 چرنے کے لیے منتشر ہونا — هَمِيًا الشَّيْ: گرجنا۔
 خالص ہونا۔

الهَامِيَةُ: اسم قائل مؤنث ج هَوَامٌ هَوَامِي
 الْإِبِلُ: چراگاہ میں گم شدہ اونٹ۔
 الهَمِيَانُ: بیٹی۔ وہ بیٹی جو تحصیل یا بونے کا کام
 دے ج هَمِيَانُ: (ذخیل)
 هَمٌّ (ض) هَمًّا وَهَمِيًّا: رونا — إِلَيْهِ: مشتاق
 ہوتا۔

أَهْرٌ الْجَمَلُ: قوی کرنا۔ صفت مفعولی
 مَهْمُونٌ: خلاف قیاس ہے جیسے أَحْمَقُ کا صفت
 مفعولی مَحْمُومٌ۔ قیاس کے مطابق مَهْمُونٌ وَمَحْمُومٌ
 آتا ہے تھا۔
 الهَامَةُ وَالْهَامَةُ: آکھ کی پھل کے بیج کی چرلی۔
 کہا جاتا ہے ”هَامِيَةٌ هَامَةٌ“ یعنی اس کے اندر کچھ
 بھی خیر نہیں۔

الهَامَةُ: رونے والی عورت۔
 هَمًا: بشکیت الہامیہ: ذور کی جگہ کے لیے
 اشارہ۔ وہیں اس جگہ۔ اور کہا جاتا ہے ”كَبْحٌ
 هَامَانًا وَهَامَانًا وَهَمَانًا“ کچھ ہٹ جاؤ۔
 هَمَاءٌ يَهْمُونَ وَهَمِيَةٌ هَمَاءٌ: کلام ہَمَلًا

گھاس۔
 الْهَمَّاقُ: پیاز ہواستو۔
 الْهَمَّاقِيُّ: مضطربانہ چال۔
 هَمَّاقَةٌ (ن) هَمَّاقِي الْأَمْرِ: کسی کام کے
 لیے کسی پر زور دینا۔
 تَهَمَّكَ وَانْتَهَمَكَ فِي الْأَمْرِ: کسی کام میں
 مشغول ہونا۔ بے حد مصروف ہونا۔

إِهْمَاكُ أَهْمِيكَ كَأَنَّ الرَّجُلَ غَضِبَ مِنْ بَهْرَانِ:
 صفت مَهْمِيَتِكَ۔
 هَمَلْتُ (ن ض) هَمَلًا وَهَمَلًا وَهَمُولًا
 عَيْنُهُ: آسو ہرنا — السَّمَاءُ: آہستہ آہستہ
 لگا کر ہرنا۔

هَمَلْتُ (ض) هَمَلًا الْإِبِلُ: بغیر چراہے کے
 آزادانہ پھرنا۔ صفت هَامِلٌ ج هَوَامِلٌ وَهَمُولَةٌ
 وَهَامِلَةٌ وَهَمَلٌ وَهَمَلٌ وَهَمَلٌ وَهَمَلِيٌّ۔
 أَهْمَلَةٌ: جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑنا۔
 أَهْمَلُ أَمْرُهُ: اچھی طرح سے نہ کرنا —
 الْعَرَفُ حرف پر نقطہ نہ لگانا۔

إِنْهَمَلْتُ عَيْنُهُ: آسو ہرنا — السَّمَاءُ:
 لگا کر ہرنا۔

الهَمَلُ: بیوند لگا ہوا کپڑا۔
 الْهَمَلُ مِنَ الْإِبِلِ: رات یا دن میں بغیر چراہے
 کے چھوڑے ہوئے اونٹ۔ آتارا ہوا کچھور کا
 چمکانا۔ بے روک کے بننے والا پانی۔

الهَمَلُ: چھوٹا مکان۔
 الهَمَلُ: عمر سیدہ۔
 الْهَمَالُ: نرم ویران زمین جس کو کوئی آباد نہ
 کرے۔

الهَمَالِيْلُ: گھاس کا تیر۔ پھٹا ہوا کپڑا۔
 الْهَمَلُ: سفر — مِنَ الْكَلَامِ: غیر مشتمل۔
 مِنَ الْعُرُوفِ: غیر منقوٹ حروف۔
 هَمَلَجٌ هَمَلَجَةٌ الْبُرْدُونُ: تیز رفتاری کے
 ساتھ نرم چال چلنا۔ عمدہ چال والا ہونا۔

الهَمَلَجُ: عمدہ چال کا ترکی گھوڑا۔ ج
 هَمَالِيحٌ: اور کہا جاتا ہے ”ذَابَةٌ هَمَلَجٌ“ تیز
 رفتاری کے ساتھ اچھی چال والا جانور۔ مذکر و
 مؤنث اس میں برابر ہیں۔
 الْهَمَلَجُ: بے وفا آدمی۔ تیز رفتار اونٹ۔ تیز

الْهَمَشُ: ہم۔ کھانے کی تیزی۔
 إِفْرَاءٌ هَمَشِيٌّ او هَمَشِي الْحَدِيثُ: بست
 بولنے والی اور شور مچانے والی عورت۔
 الْهَمَشُ: الگبوں سے تیز کام کرنے والا۔
 الْهَمِيَشَةُ: ہانڈی میں پکی ہوئی مڈی۔ اور اگر
 آگ پر بھونی جائے تو اسے الْمَحْمُوشُ کہتے
 ہیں۔

هَمَصَ (ن) هَمَصًا الدَّخْمُ: کھانا —
 الرَّجُلُ: کسی کو بچھا کر پراہنہ اور قتل کرنا۔
 رَجُلٌ مَهْمُوشٌ الْقَوَادِ: مرد آشفند دل۔
 هَمَصَ (ض) هَمَصًا الرَّجُلُ: ظلم کرنا۔ بولنے
 اور کھانے میں لاپرواہ ہونا — الشَّيْ: بغیر اندازہ
 کے لینا — الصَّالُ: زبردستی لے لینا۔

تَهَمَّطَ وَاهْتَمَّطَ الْمَاءُ: زبردستی لے لینا۔
 إِهْتَمَّطَ عَرَضٌ فَلَانَ: بے آرومی کرنا۔ گالی دینا
 — الذَّنْبُ الشَّاءُ: بھیڑیے کا بکری کو کھڑنا۔
 الْهَمَّاطُ: خالم۔

هَمَعَتِ (ن) هَمَعًا وَهَمَعًا وَهَمُوعًا
 هَمَعَانًا وَتَهَمَّعًا الْعَيْنُ: آسو ہرنا۔ اور
 هَمَعَتِ الْعَيْنُ بِالذَّمْعِ بھی بولا جاتا ہے وَهَمَعِ
 الْقَلْبُ عَلَى الشَّجَرَةِ: جھم گرجنا۔ هَمَعٌ وَاسَةٌ:
 زخمی کرنا۔

أَهْمَعُ الدَّفْعُ وَنَحْوُهُ: آسو ہرنا — الظِّلُّ
 درخت پر چھینم کرنا۔
 تَهَمَّعَ الرَّجُلُ: بخلف رونا — الدَّفْعُ وَ
 نَحْوُهُ: آسو ہرنا۔

أَهْمَعُ لَوْثُهُ: رنگ بدل جانا۔
 الْهَامِيَةُ: الْهَامِيَةُ كَأَمْوَسَتْ ج هَوَامِعٌ دُمُوعٌ
 هَوَامِعٌ: بیٹے والے آسو۔

سَمَاعَاتٌ هَمِيعٌ: برسنے والا بادل۔ عَيْنٌ
 هَمِيْعَةٌ: پیش روئی ہوئی آنکھ۔
 الْهَمُوعُ: بیٹے والا۔
 الْهَمِيْعُ: فوری موت۔

هَمِيعٌ (ف) هَمِيعًا اسَةٌ: سر توڑنا۔
 الْهَمِيعَةُ الرُّطْبِيَّةُ: ترکھور کا پھٹ جانا —
 الْقَرْحَةُ: زخم کا ہر ہونا۔
 الْهَمِيْعُ: موت یا فوری موت۔
 الْهَمِيقُ: نرم گھاس۔ بست گھاس۔ خشک

رینا — الابیل: اونٹ پر قطران ملنا —
الرَّجُلُ: مرد کرنا۔

هَنَا يَهْنُو وَيَهْنَأُ وَيَهْنُو هَنَا وَهَنَا وَهَنَا
الطَّعَامُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلُ: خوشگوار ہونا۔ کما جاتا
ہے "هَنَا تَبِيَهُ الْعَاقِبَةُ" یعنی عاقبت میرے لیے
خوشگوار ہے۔ اور عرب دعا کے موقع پر کہا کرتے
تھے۔ "لِيَهْنِكَ الْوَلَدُ" یعنی لڑکا تمہیں مبارک
ہو۔

هَنَا وَهِنَاهُ هَنَا بِالْأَمْرِ: کسی سے "لِيَهْنِكَ"
کرنا — هَنَا وَهَنَا وَهَنَا: الطَّعَامُ: کھانا تیار
کرنا۔ درست کرنا۔

هَنِيئٌ (س) هَنَا وَهَنَا بِهِ: خوش ہونا۔
— الطَّعَامُ: کھانے سے لطف اٹھانا۔ لذت پانا۔
اور کہا جاتا ہے "اَكَلْنَا مِنْ هَذَا الطَّعَامِ حَتَّى
هِنَيْنَا مِنْهُ" اس کھانے کو ہم لوگوں نے کھایا یہاں
تک کہ حکم یہ ہو گئے۔

هَنُو يَهْنُو هَنَا وَهَنَا وَهَنَا بغير رَج و
مشقت کے حاصل ہونا۔

هَنَا تَهْنِئُوا وَتَهْنِئَةُ بَكْدَا: مبارکباد دینا۔
أَهْنَاءُ أَهْنَاءُ دِينَا۔

تَهْنَأُ تَهْنُو بِهِ: خوش ہونا — بِالطَّعَامِ
کھانے سے لطف اٹھانا۔ لذت پانا۔

إِسْتَهْنَأُ أَسْتَهْنِئُهُ: مدد طلب کرنا۔ عطیہ مانگنا
— الطَّعَامُ: خوشگوار سمجھنا۔

الهَانِي: نا۔ خادم۔
الهِنَاءُ: قطران (تارکول) کھجوروں کا گچھا۔
الهِنَاءُ: قطران یعنی تارکول ملنا۔ عطیہ۔ رات
کا حصہ۔

الهِنِيءُ: خوشگوار۔ بلا مشقت کے حاصل
ہونے والی چیز۔ ابدال اور ادغام کر کے الهِنِيءُ بھی
کہا جاتا ہے۔ کما جاتا ہے "هَذَا أَمْرٌ آتَاهُ هِنِيئًا"
یہ بات تم کو بلا مشقت حاصل ہوئی "وَإِكْلُهُ
هِنِيئًا مَرِيئًا" میں نے اس کو بغیر کسی مشقت کے
بڑے مزے سے کھایا "وَهِنِيئًا لَكَ" تمہارے
لیے بغیر مشقت کے ہے۔

المَهْنَاءُ: بلا مشقت حاصل ہونے والی چیز۔
هَنْبٌ هَنْبَةٌ الرَّجُلُ: ذھیلا ہونا۔ ست ہونا۔

الهَنْبَةُ: مشکل کام۔ قول میں گزری رَج
هَنْبًا۔ الهَنْبَاتُ: مصیبتیں۔ گزربو محاطے۔ گڈمڈ
نہیں۔

الهَنْبَةُ: سخت کام۔ رَج هَنْبًا۔
الهَنْبِيْرُ: ریت کے بلند ٹیلے۔ واحد هَنْبُوْرَةٌ
(اور یہ ہنہا پتھر کا مقلوب ہے)

الهَنْبِيْرُ: گدھے کا پتہ۔ بچو کا پتہ۔
الهَنْبِيْرُ وَالْهَنْبِيْرُ وَالْهَنْبِيْرُ: بچو۔
الهَنْبِيْرَةُ هَنْبِيْرٌ كَالْمَرْوَةِ: گدھی۔
الهَنْبِيْرُ: تیل۔ گھوڑا۔ خراب چڑا۔ یا اس کا کنارہ۔
الهَنْبِيْرُ: ریت کا بلند ٹیلہ۔

هَنْبَسٌ وَهَنْبَسٌ: خبروں کی کھوج میں ہونا۔
هَنْبَسٌ هَنْبَسَةٌ: آہستہ ہونا۔
الهَنْبِصُ: ناکارہ و ست و حقیر مرد۔

رَجُلٌ هَنْبِصٌ — بڑے بیٹہ والا مرد۔
الهَنْبِغُ: لڑکیوں کے لیے نقاب جیسی ایک چیز
جس کے اگلے حصہ کو سی دیتے ہیں۔

هَنْبِغُ الرَّجُلِ: بھوکا ہونا — العَجَاجُ: غبار کا
بت ہونا اور اڑنا۔

الهَنْبِغُ: ذرا سی حرکت سے اڑنے والی خاک۔
شیر۔ بد رکھ یوقف عورت۔ بھوک کی سختی۔ اور
بھوک کی صفت میں کبھی واقع ہوتا ہے۔ کما جاتا
ہے "جُنُوعٌ هَنْبِغٌ وَهَنْبِغٌ وَهَنْبِغٌ" یعنی سخت
بھوک۔

هَنْبِلُ الرَّجُلِ: لنگڑا ہونا اور بھوک کی طرح چلنا۔
هَنْبٌ فِي أَمْرِهِ: سستی کرنا۔

تَهْنِجُ الْفَصِيلِ: اونٹ کے بچے کا ماں کے
پہیٹ میں حرکت کرنا۔

هَنْدُ الرَّجُلِ: اولیٰ طرح بیچنا — فِي الْأَمْرِ:
کو تا ہی کرنا — فَلَانًا: بیچ گاں دینا — زَيْنًا: گلی
برداشت کرنا اور گلی دینے والے کو گلی دینے سے
باز رکھنا — السَّيْفُ: تلوار تیز کرنا۔ اور کما جاتا
ہے "مَا هَنْدَعُ الْأَمْرُ" وہ کام سے بچے نہیں ہٹا۔
هَنْدَةُ الْمَرْوَةِ: نرمی اور ملاحظت سے اپنے
عشق میں جھکا کرنا۔ اور کما جاتا ہے "هَنْدَتْ
بِقَلْبِهِ" وہ اس کے دل کو اڑائے لگی۔

هَنْدُو هَنْبَةٌ: سویا سوسے زائد اونٹوں کا روڑ
رَجْ أَهْنِدُوا أَهْنَادًا وَهَنْدُو: ہند۔ عورت کا نام۔ پھر

عورتوں کیلئے علم جنس کے طور پر استعمال ہونے
لگا جیسے زید عمرو مردوں کے لیے رَج هَنْدُو و
هِنْدَاتُ وَالْهِنْدُ: ہندوستانی ملک کو بھی ہند کہتے
ہیں۔ اور نسبت کے لیے هِنْدِيٌّ رَج هَنْدُو۔ اور یا
اوقات امریکہ کے اصلی باشندوں کو بھی هَنْدُو
کہتے ہیں اور کما جاتا ہے "لَقِيَ هِنْدُ
الْأَحَامِسُ" یعنی وہ مر گیا۔

الهِنْدُوَانِيُّ وَالْهِنْدُوَانِيَّةُ: ہند کی جانب
منسوب۔ کما جاتا ہے "سَيْفٌ هِنْدُوَانِيٌّ" ہندی
تلوار (اور یہ نسبت شاہد ہے)

الْأَهَانِدُو الْهِنْدَاكِ: ہندوستان کے مرد۔
المُهَنْدُ: ہندوستانی لوبے کی تلوار۔
الهِنْدَبُ وَالْهِنْدَبَاءُ وَالْهِنْدَبَا وَالْهِنْدَبَاءُ:
کاسنی۔

الهِنْدَبَاءُ وَالْهِنْدَبَاءُ: ہند کا واحد۔
الهِنْدَازُ: حد و قیاس۔ اندازہ۔ کما جاتا ہے
"أَعْطَاهُ بِلَا هِنْدَازٍ وَلَا حِسَابٍ" اس نے
اسے بلا اندازہ اور حساب کے دیا۔ (دخیل)

الهِنْدَازَةُ: گز۔
المُهَنْدِلُ: انجینئر۔
هَنْدَسٌ هَنْدَسَةٌ: عمارت کا اندازہ کرنا اور
نقشہ بنانا۔

الهِنْدِيسُ مِنَ الرَّجَالِ: تجربہ کار۔ ذور
اندیش۔

الهِنْدَسَةُ: مہ۔ حد و قیاس۔ اور اس کی اصل
اندازہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ جا میشری۔
هَنْدُوْسُ الْأَمْرِ: کام کا جاننے والا۔ رَج
هِنْدَا سَةٌ۔

المُهَنْدِيسُ: انجینئر۔ جا میشری کا جاننے والا۔
الهِنْدَاكِ: ہندوستان کے مرد (کاف تحقیق کے
لیے ہے) اوحد ہند کئی۔

الهِنْدَلِيقُ: بہت باتی مرد۔
هَنْدَمُ السَّنِيِّ: بقدر تقاب ترتیب دینا۔
مضبوط کرنا — الْغُودُ وَغَيْرُهُ: اندازہ سے
درست کرنا۔

الهِنْدَامُ: قد کی خوبصورتی اور اعتدال۔
الهِنْدَةُ: کان کا گڑھا یا گلہ شاہد ہے اس وجہ
سے کہ کلام عرب میں ایسا کلمہ کہ جس میں نون

کے بغیر کسی فاصلہ کے راہبوست کم واضح ہوتا ہے۔

الْهَيْبَةُ - تَكْلِيفٌ وَرَجٌّ -

هَنْعٌ (ف) هَنْعًا الشَّقِيُّ: مُرَوَّنًا ذُو هِرَاكْرَا -
فِلْأَنْ: فِرْدَتِي كَرَا. صَفْتِ هَانِعٌ حِ هَنْعٌ -

هَنْعٌ (س) هَنْعًا: پست گردن اور جھکے ہوئے
قد والا ہونا۔ صفت آهَنْعٌ -

اسْتَهْنَعُ التَّوَجُّلُ: جَوَابٌ سَ عَاجِزٌ هُوَا -

الْهِنَاعُ: اِيكُ شَمِّ كِي بِيَارِي جُو آدِي كِي گِرْدَن
میں ہوتی ہے۔

الْهِنَعُ: قَدْ كَا جَمَاوُ - اُونْتُ كِي گِرْدَن كَا جَمَاوُ -

الْهِنَاعُ: اَهْنَعُ كَا سَوْنْتُ - نَعَامَةُ هَنْعَاءُ بِيَجِيْرَه
گِرْدَن كَا شَرْمُخُ - اَكْمَةُ هَنْعَاءُ: بِيَجُو نَائِلَه -

الْهِنَعَةُ: هَنْعٌ كَا سَمْرَةٌ: اُونْتُ كِي گِرْدَن كِي
جَزَاوَاغُ - جَانِدِي كِي اِيكِي مَنْرَلُ جُو صَفِ بَسْتِ پَانِجِ

سِتَارُونِ پَرِ مَشْتَمَلُ هَے اُوْر جُوْرَزَاءُ كِي بَأْسِ
جَانِبِ وَاوِعُ هَے -

الْأَهْنَعُ: جَمَكِي هُوَيْ قَدْ وَاوَا - زِيْنِ پَرِ اِدْرَاهِرُ وَاوَرِ
مَآكِلِ هُوَيْ وَاوَا -

الْهِنَعُ: فَاجِرَه وَبِدْكَارِ عَمْرَتِ - هِرَا اِيكِي سَ
اِسْپَ بَمِيْدِ كُو نَا هِرِ كَرْنِ وَاوِي عَمْرَتِ - بِيْرِي بَسْنِ

وَاوِي عَمْرَتِ -

هَنْفُ الرَّجُلُ: رُوْرُنَا - تِيْرُجَلْنَا -

هَانَفْتُ مَهَانَفَةً وَهِنَا فَا الْمَرْأَةُ خَاصَّةً:
مَخُولُ كَرْنِ وَاوِي كِي مَانِدِ بَسْنَا - هَنْفُ فُلَانٌ

صَاحِبَةٌ: بَأْسَمِ كِهِيْلِ كُو دَرْنَا -

أَهْنَفُ: مَخُولُ كَرْنِ وَاوِي كِي مَانِدِ بَسْنَا -
الرَّجُلُ: تِيْرُجَلْنَا - الصَّبِيُّ: بَسْنِي كَارُوَانَا

هَوَا -

تَهَنْفٌ: رُوْنَا -

أَهْنَفْتُ الْمَرْأَةَ: بِمَعْنَى هَانَفْتُ -

تَهَانَفُ: مَخُولُ سَ بَسْنَا - الصَّبِيُّ بَسْنِي كَا
رُوَانَا هُوَا - تَهَانَفُ بِه: تَوَجُّبُ كَرْنَا -

الْهِنُوفُ: مَكْرَاهِتُ سَ كَمُحُ زِيَادَه نَبِي -

الْهِنَقُ: بَے آرَايِ - بَے قِرَارِي -

الْهِنَمُ: كَمْجُو رِيَا سِ كِي اِيكِي شَمِّ -

الْهِنِيمُ: رُوْتِي -

الْهِنِيْمَةُ: نَرْمُ وَپِسْتِ آوَازِ - اِيكِي شَمِّ كِي

تَرَكَارِي -

الْهِنُو: وَرَقْتِ -

الْهِنُ: بِتَخْفِيْفِ التَّوْنِ وَ قَدْ تَشَدَّدَ فِي
الْيَمِينِ: هِرَا سَمِ جَمَسِ سَ كِنَايَه كِي لِیَے بِمَعْنَى

شَمِي - كَمَا جَا تَا هَے "هَذَا هِنَاكَ" يَه تَسْمَارِي چِيْرَه
اُوْر اِس كِي تَصْفِيْرَ هِنِيْ هَے - اُوْر مَوْنْتُ هِنَاة - اُوْر

اِس كَا لَامِ كَلْمَه مَحْذُوْفَ هَے بَعْضِ لَعْتِ مِيْنِ وَاوِ لَامِ
كَلْمَه بَأَسَ هَے تُوَا سِ كِي تَصْفِيْرَ هِنِيْ هَے هُوِي - اُوْر اِسِي

سَ هَے "أَمْنَكْتُ هِنِيْ هَے" لِیَعْنِي تَهُوْرِي دَرِ نَهْرُو -
اُوْر بَعْضِ لَعْتِ مِيْنِ لَامِ كَلْمَه وَاوُ هَے تُوَا سِ كِي تَصْفِيْرَ

مَوْنْتُ كِي سَوْرَتِ مِيْنِ هِنِيْ هَے هُوِي اُوْر اِس كِي جَمِ
هِنُوَاتِ اُوْر كَبِيْ جَمِ لَفْظِ كِي لَمَاطَ هَے هُوْتِي هَے تُو

كَيْتِي هِيْنَاتِ اُوْر اِس كَا عَرَابِ حُرُوْفِ سَ
هَے - حَالِيْتِ رَفْعِي مِيْنِ هِنُوَا هَا اُوْر نَفْصِي مِيْنِ هِنَا هَا

اُوْر جَرِي مِيْنِ هِنِيْ هَا كَيْسِ كَے - اُوْر هِنُ كَا تَشْتِيْ
هِنَانِ لَفْظِ كِي لَمَاطَ سَ اُوْر هِنُوَانِ اَصْلُ كِي لَمَاطِ

سَ اُوْر جَمِ هِنُوَانِ - اُوْر كَمَا جَا تَا هَے "فِي فُلَانِ
هِنَاتٌ" فُلَانُ كِي اِنْدَرِ بِيْرِي خِصْلَتِيْنِ هِيْنِ اُوْر اِس

كَا اسْتِجَالِ خِيْرِ مِيْنِ نِيْسِ هُوَا -

الْهِنَا: خِيْسٌ وَكَمِيْدٌ نَسْبٌ - وَهِنَا: بِمَعْنَى اَنَا. تَم
كَيْتِي هُو هِنَا فَعَلْتُ بِمَعْنَى اَنَا فَعَلْتُ -

هِنَا: اِسْمُ اِشَارَه هَے - مَكَانُ قَرِيْبِ كِي لِیَے بِمَعْنَى
هِيَا - اُوْر اِس مِيْنِ هِنَا تَسْبِيْهٌ اُوْر كَافِ خِطَابِ

لَا تَمِ هُوْتِي هِيْنِ تُو كَمَا جَا تَا هَے "هِنَانَا" اُوْر
"هِنَاكَ" اُوْر كَافِ خِطَابِ كِي سَا مِ سَا مِ لَامِ بَعْدِ

بِهِي لَغَا جَا تَا هَے تُو كَمَا جَا تَا هَے هِنَا لَكُ -

هِنَا مَعْرُوفَةٌ: كِهِيْلِ كُو دَرْنَا جَا تَا هَے "جَاءَ مِيْنِ
هِنِيْنِ" لِیَعْنِي وَهِيَا سَ اِيَا -

الْهِنَاةُ: مَصِيْبَتُ حِ هِنُوَاتِ -

هِنَاةٌ: تَذَكْرَه اُوْر دِهْمَلِي كَيْلِيْ سَمِ صَوْتِ -

هِنَاةٌ (س) هِنَاةٌ وَهِنَاةٌ: تَتْنَانَا زَبَانِ رَكْنَا -

هُوَا: مَفْرُوْدٌ ذِكْرُ غَايِبِ كِي صَمِيْرِ هَے اُوْر تَشْتِيْهَ كِي
لِيْے هُنَا جَمِ ذِكْرِ كِي لِیَے هُنْمُ مَفْرُوْدٌ مَوْنْتُ كِي

لِيْے هِيْ اُوْر جَمِ كِي لِیَے هُنُ - وَاوَا اُوْر فَآكِي بَعْدِ
هُوَا اُوْر هِيْ كِي هِنَا كُو سَا كِنِ كَرْنَا بِيْ جَا تَا هَے - كَمَا

جَا تَا هَے "هُوَا فِهُوَا وَهِيْ وَفِهِيْ" اُوْر لَامِ كِي بَعْدِ
بِيْیَ "اِنَّ هَذَا الْهُوَا الْحَقُّ" كَرْمِيْهَ لَقِيْلِ هَے - اُوْر

كَبِيْ اِشْعَارِ مِيْنِ هَمْرَه اسْتِفْهَامِ كِي بَعْدِ بِيْیَ سَا كِنِ

ہوتا ہے۔

الْمُهْوِيَّةُ: چِيْرِيَا فِخْصِ كِي حَقِيْقَتِ جُو صَفَاتِ
جُو هِرِي پَرِ مَشْتَمَلِ هُوَا - اُوْر يَه هُو كِي جَانِبِ مَسْرُوْبِ
هَے -

الْمُهْوِيَّةُ: لَفْظَ هَے جُو مَرْكَبِ هَے هُوَا كَرْمِ سَ
اِس كُوَا سَمِ مَعْرُوفِ بِنَا يَا كَمَا هَے - اُوْر اِس كِي مَعْنَى
اِتْمَادِ بِلَذَاتِ كِي هِيْنِ -

هَاءٌ يَهْوِيَةٌ هَوَاءٌ اِنْفِصَالِيَّةٌ اِلَى الْمَعَالِي: بَلَنْدِ
كَرْنَا - هَاءٌ يَهْوِيَةٌ اَوْ شَبِيْرَةٌ هَاءٌ بِه خِيْتَرِ اَوْ شَبْرًا:

گَمَانِ كَرْنَا يَا حَمِيْتِ لَغَا تَا - "هَاءٌ يَهْوِيَةٌ" فَرَشِ هُوَا
اُوْر كَمَا جَا تَا هَے "هَاءٌ هِنِيْ هَے حَسَنَةٌ" وَاوَا جَمِي شَكْلِ

وَصُوْرَتِ پَرِ هُوِيَا -

هَوِيٌّ يَهْوِيٌّ هَوَاءٌ اِلَيْه: اِرَادَه كَرْنَا -

هَاءٌ: كَلْمَه اِجَابَتِ هَے - جَمِي رَفْعِ هَے - كَمَا جَا تَا
هَے "هَاءٌ يَارَ جُلُ بَكْسَرِ الْهَمْزَه" لِیَعْنِي لَاوُ -

اُوْر اِس مِيْنِ هَابِ كِي گِرْدَانِ جَمِي گِرْدَانِ هُوْتِي
هَے - كَمَا جَا تَا هَے "هَاءٌ هَانِيَا هَاءٌ وَهَانِيَا هَانِيَا

هَانِيْنِ" هَمْزَه هَابِ كِي تَا كِي قَائِمِ مَقَامِ هَے اُوْر
جَبِ تَمَّ هَاءٌ يَارَ جُلُ فَرَشِ حَمْرَه كِي سَا مِ كُو كِي تُو

اِس وَرَقْتِ اِس كِي مَعْنَى هُوِي كِي - اِس مَرْدَلِي -
ذِكْرُ كِي سَوْرَتِ مِيْنِ "هَاءٌ هَاؤُ مَا هَاؤُمُ" اُوْر

مَوْنْتُ كِي سَوْرَتِ مِيْنِ هِنَا كِسْرَه كِي سَا مِ بَغِيْرِيَا
كِي - اُوْر هَاؤُ مَا هَاؤُنُ - اُوْر تَمَّ كَمُ كَيْتِي هُوَا هَاؤُ

هَاكُمَا هَاكُمُ هَاكُ هَاكُمَا هَاكُنُ - كَافِ حَمْرَه
كِي قَائِمِ مَقَامِ هَے -

الْمُهْوَاءُ: مَهْ - بَسْتِ - رَايِ صَابِ اِرَادَه - گَمَانِ -
كَمَا جَا تَا هَے "وَقَعَ كَذَا فِي هَوْنِيْنِ اَوْ هَوْنِيْنِ"

مِيْرَے گَمَانِ مِيْنِ اِيَا وَاوِعِ هُوَا -

الْمُهْوَبُ: دُوْرِي - كُوَا سِ كَرْنِ وَاوَا - يُو قُوْفِ -
اَلِكِ بِيْرُكِ -

الْمُهْوِيْرُ: سُوْسِنُ يَا سَرْمُخِ سُوْسِنِ - چِيْتَا - بَسْتِ بَالُوْنِ
وَالْبَابِنْدَرِ -

نَاقَةٌ مَهْوِيْرَةٌ: بَسْتِ كُو شِ تِ وَاوِي اَوْنَتِي -

أَذُنٌ مَهْوِيْرَةٌ وَ مَهْوِيْرَةٌ: كَانِ جَسِ پَرِ بَالِ يَا
اُوْنِ هُوَا -

هَوَاتٌ بِه تَهْوِيْتَانَا: جَلَانَا - فُلَانٌ بَسْتِ زَمِيْنِ
مِيْنِ آتَا -

الْمُهْوِيْتَةُ وَ الْمُهْوِيْرَةُ: بَسْتِ زَمِيْنِ - وَ حَمْلُوَانِ رَاسْتِ

ہوؤوزا) البِنَاءُ: عمارت کا پخت جانہ۔ صفت
 ہائیر اور ہار بھی کہا جاتا ہے جیسا شائیک
 السِّلَاح میں شاکین السِّلَاح۔
 هُوَزَةٌ تَهْوِيزًا: بچھاڑنا۔ ہلاکت میں ڈالنا۔
 تَهْوِيزٌ تَهْوِيزًا وَ تَهْوِيزٌ تَهْوِيزًا: عمارت کا
 مندم ہونا۔ کرنا — التَّوَجُّلُ: لا پر والی سے کسی
 کام میں گھس پڑنا — التَّوَعُّكُ النَّاسُ: بخار
 پھیل جانا — اللَّيْلُ: گزر جانا یا اکثر حصہ گزر جانا
 — الشِّقَاءُ: جائزے کا قریب قریب ختم ہونا۔
 اِنْتَهَارُ الْهَيَازِ الْبِنَاءُ: عمارت شکستہ ویران
 ہونا۔ کرنا — الخُزْفُ: بچھڑا اور کرنا۔
 اِهْتَوَزَ اِهْتَوَازًا الشُّيْ: ہلاک ہونا۔
 الْهَوُزُ: مہ چھوٹا سمندر جس میں ندی نالوں کا
 پانی آ جانے سے وسعت پیدا ہو جائے ج اَهْوَارُ۔
 الْهَوُزُ: بکریوں کا پر پڑاں وجہ سے کہ وہ بھی
 کثرت کی وجہ سے ایک دو سرے پر گرتی ہیں۔
 خَزْفٌ هَوُزٌ: کشادہ گھن۔ کہا جاتا ہے زَجْلٌ هَادٍ
 وَ هَاؤُ: زمانہ کی تخی کی وجہ سے کمزور مرد۔
 الْهَوَازَةُ: ہلاکت۔
 الْهَوَزَةُ: ہلاکت کی جگہ ج ہَوَزَاتُ۔
 الْهَوَزَةُ: تہمت اور گمان اور یہ ہَاوَةٌ کا اسم
 ہے۔
 الْهَيَازُ: کمزور۔
 الْهَيِيزُ: بے بالی سے کاسوں میں گھس پڑنے
 والا۔
 التَّهْوِيزُ: ریت کے تودہ سے گری ہوئی ریت۔
 پست زمین۔
 هَوَزٌ تَهْوِيزًا: مرنا۔
 الْهَوُزُ: آفریش پیدا کن۔ تم کہتے ہو ”مناہی
 الْهَوُزُ مِثْلَكَ“ مخلوق میں تمہارے مانند کوئی
 نہیں۔ ”وَ مَا اَدْرِيْ اَيُّ الْهَوُزِ هُوَ“ میں نہیں
 جانتا وہ کون مخلوق ہے۔
 هَوَزٌ: حسابِ جمل کے حروف کا وہ سرا مجموعہ۔
 الْاَهْوَازُ: بصرہ اور فارس کے درمیان کا ایک
 علاقہ جو نو آبادیوں پر مشتمل ہے، ہر آبادی کا
 علیحدہ علیحدہ نام ہے اور ان سب کے مجموعہ کو
 اَهْوَازُ کہتے ہیں۔ اور ان آبادیوں میں سے ایک کو
 هُوَزُ نہیں کہتے۔

الْهَوَاذَةُ: نری۔ وہ چیز جس سے قوم کے درمیان
 بھلائی کی امید کی جائے۔ تخفیف و سولت۔
 میلان۔ اور اسی سے ہے ”لَا تَبْتَئِكَ اِلَى زَجَلٍ لَا
 تَأْخُذُكَ فِئِكَ هَوَاذَةٌ“ میں تم کو ایسے گھس کے
 پاس بھیجوں گا جس کو تمہارے بارے میں کوئی
 میلان نہ ہوگا۔
 الْهَوُزُ: بیود — ہانید کی جمع۔
 هُوْدٌ: ایک نبی (ﷺ) کا اسم گرامی۔ وَ لَقَوْمٌ هُوْدٌ
 قَوْمٌ عَاد۔
 الْهَوُوْدَةُ وَ الْهَوُوْدَةُ: کہان ج ہُوْد۔
 التَّهْوِيْدُ: مہ۔ ریت میں ہوا کی سائیں سائیں کی
 آواز۔
 التَّهْوِيْدُ وَ التَّهْوَاوُ: کمزور و نرم آواز۔
 التَّهْوَاوُ: نری و ملامت۔
 يَهْوُوْدُ: بیودی۔ علیت اور وزن فعل کی وجہ
 سے غیر متصرف ہے اور اس پر الف سلام داخل ہوتا
 ہے تو کہا جاتا ہے التَّهْوُوْدُ۔
 التَّهْوُوْدِيُّ: اليهود کا واحد۔
 التَّهْوُوْدِيَّةُ: بیودن۔ بیت المقدس اور اس کے
 ارد گرد کا علاقہ۔
 التَّهْوَاوُودَةُ: مہ۔ مراہت۔
 التَّهْوُوْدُ: نا۔ کھیل کود طرب میں ڈالنے والا۔
 اَهْوُوْدُ: ہیر کا لون۔ دو شنبہ۔
 الْهَوُوْدُجُ: ہودہ ج ہودہ ج ہوداد ج۔
 الْهَوُوْدُجُ: شتر مرغ۔ واحد هَوُوْدُجَةٌ۔
 الْهَوُوْدُكُ: مونا۔ سونٹ هَوُوْدُكَةٌ۔
 هُوُوْدًا: هُوُوْدًا اور ذَاخِر سے مرکب ہے اور
 کبھی اس پر حاء تشبیہ داخل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے
 ”هَاهُوُوْدًا“
 الْهَوَاذَةُ: ایک قسم کا درخت ج هَاذٌ۔
 الْهَوُوْدَةُ: سنگ خوار پر ہودہ ج هُوُوْدُ۔
 التَّهْوُوْدِيُّ: بیودی۔
 هَاوَزٌ تَهْوِيزٌ هَوُوَزٌ اَهْوَاوًا مَهْوُوْرًا: تہمت لگانا —
 هُوُوْدًا: گمان کرنا۔ خیال کرنا — هُوُوْدٌ عَنِ الشُّيْ:
 باز رکنا — هُوُوْدٌ عَلَى الشُّيْ: برا گنجی کرنا —
 هُوُوْدًا: دھمکانا۔ بچھاڑنا — الشُّيْ: تجنید کرنا۔
 اندازہ کرنا — الْبِنَاءُ: عمارت ڈھانا — الْبِنَاءُ:
 عمارت مندم ہونا۔ شکستہ ویران ہونا — هُوُوَزًا

جو بالی کی طرف جاتا ہو۔ ج هُوُوْتُ۔
 الْهَوُوْدَةُ: پیاس۔
 هُوُوَجٌ يَهْوُوَجُ هُوُوَجًا: لمباہو قوف۔ جلد باز
 ہونا۔ صفت اَهْوُوَجُ۔
 اَهْوُوَجٌ: لمباہو قوف جلد باز پڑنا۔
 تَهْوُوَجُ الْخُوُوْدُ: شدت سے گری پڑنا۔
 الْهَوُوَجَاءُ: الْاَهْوُوَجُ كَالسُّوْنُتِ۔ تیز رفتار اونٹنی
 (اونٹ کو اَهْوُوَجُ نہیں کہتے) الْهَوُوَجَاءُ مِنْ
 التَّوِيَاْحِ: تیز آمدنی ج هُوُوَجُ۔ کہا جاتا ہے
 ”لَعِبْتُ بِهَا هُوُوَجُ التَّوِيَاْحِ“ تیز آمدنیوں نے
 اس کے ساتھ کھیل کود کیا۔ هُوُوَجَةٌ هُوُوَجَاءُ اِسْمِي
 مَا رَجَسُ كَالرُّجُوْفِ تَبْكُ هُوُو۔
 الْاَهْوُوَجُ: بہادر جنگ آزمودہ۔ اور کہا جاتا ہے
 ”هُوُوْ اَهْوُوَجُ الطَّلُوْلِ“ وہ بہت لمبا ہے۔
 هُوُوَجَلٌ۔ التَّوَجُّلُ: تموڑا سا سونا۔ بے نشان
 راستہ پر چلنا۔
 الْهَوُوَجَلُ: بے نشان دور کا بیان، بے نشان
 راستہ ایسی زمین جس میں کچھ پتہ نہ چلے سکتے
 بیوقوف، بدکار عورت، لمبی رات، اونگھ کا پتہ،
 کشتی کا لنگر، اہر رہبر، رست رفتاری اور کہا جاتا
 ہے ”مَشِيْ هُوُوَجَلٌ“، ”جَلِيْ وَ صَالِيْ جَالٌ۔
 هَادٍ يَهْوُوْدُ هُوُوْدًا: توبہ کرنا۔ حق کی طرف لوٹنا۔
 کہا جاتا ہے ”هَادًا الْمُنْدِبُ اِلَى اللّٰهِ“ گنہگار نے
 توبہ کی۔ صفت ہانید۔ ج هُوُوْدٌ — فَلَانٌ: بیودی
 بنا (— تَهْوَاوًا) نرم آواز سے بولنا — فِي
 الْمَنْطِقِ نَرِيْ وَ اَهْوُوَجِيْ سے بولنا۔
 هُوُوْدٌ تَهْوِيْدًا: نری کے ساتھ گلے میں آواز
 پھرانا۔ گانا۔ آہستہ آہستہ گھر گھر کے چلنا۔ کو ان کا
 گوشت کھانا — فَلَانًا: بیودی بنا۔ طرب میں
 ڈالنا۔ کھیل کود میں ڈالنا — الشُّرَابُ فَلَانًا:
 مست کرنا — فَلَانٌ فِي الْمَنْطِقِ: نری اور
 آہنگی سے بولنا — فِي الشُّبْرِ: دیر کرنا۔ هُوُوْدُ:
 سونا۔
 هَاوَةٌ مَهْوَاوَةٌ: ایک دو سرے کو مائل کرنا۔
 صلح کرنا۔ ہام و مدہ کرنا۔
 تَهْوُوْدٌ تَهْوُوْدًا: توبہ کرنا۔ حق کی طرف لوٹنا۔
 بیودی ہونا — فِي الْمَنْطِقِ: نری اور آہنگی
 سے بولنا۔

الهُؤُوسُ: گدھ۔ مضبوط قوی اونٹ۔
الهُؤُوزُنُّ: غبار۔

ہاش ہُؤُوشُ ہُؤُوشَا الشُّعْ: کوٹھا۔ توڑنا۔ کہا جاتا ہے ”حَمَلٌ عَلَى العُنْكَرِ فَذَانَهُمْ وَهَاسَهُمْ“ اس نے لنگر پر حملہ کیا اور ان کو تتر تر کر دیا۔ بِاللَّيْلِ: رات میں گھومنا پھرنا۔ اَلْقَطَاعُ: بھت کھانا۔ اَلْاِبِلُ: اونٹوں کو آہستہ باکتا۔ الرَّجُلُ: زمین پر سخت ٹیک لگاتے ہوئے چلنا۔ اَلذُّبُّ فِي العَنَمِ: بھیڑیے کا بکریوں میں تباہی پھیلا دینا۔ حَوْلُ الشُّعْ: رد گرد گھومتا۔

هَؤُوسٌ يَهُؤُوشُ هَؤُوشَا القَوْمُ: حیرت و اضطراب میں پڑنا۔ فَلَانٌ: ہوس والا ہونا (دیکھئے لفظ ہوس)
هَؤُوسَةٌ: ہوس پر ابھارنا۔ کوٹنا۔

تَهَؤُوسٌ: ہوس والا ہونا۔ نرم زمین میں سخت چال چلنا۔

الهُؤُوسُ: ہم۔ جنون کی ایک قسم۔ سبکی عقل۔ اور کہا جاتا ہے ”بِرؤُوسِهِ هَؤُوشٌ“ اس کے سر میں چکرے۔

الهُؤُوسُ وَالهُؤُوسَةُ: رات میں گھومنے والا شیر۔ تجربہ کار بہادر۔ ”رَجُلٌ هَؤُوشٌ“ بھت کھانے والا مرد۔

الهُؤُوسُ: فکر۔ وہ چیز جس کو تم اپنے دل میں چھپاؤ۔

الْاَهُؤُوسُ: ہوس والا۔ بھت کھانے والا اونٹ
هَؤُوسِيٌّ: کہا جاتا ہے ”النَّاسُ هَؤُوسِيٌّ وَالثَّوْمَانُ اَهْؤُوسٌ“ یعنی لوگ زمانہ کی لذت اور پائیزہ چیزوں کو کھاتے ہیں اور زمانہ لوگوں کو کھاتا ہے۔

المُهَؤُوسُ: غم۔ ”رَجُلٌ مَهْؤُوشٌ“ خود بخود باتیں کرنے والا۔

هَاشَ يَهُؤُوشُ هَؤُوشَا المَالِ: حرام طریقہ سے جمع کرنا۔ القَوْمُ: مضطرب ہونا۔ گدھ ہونا۔ قوم کے درمیان فتنہ واقع ہونا۔ اَهْلُ الحَرْبِ يَغْضُؤُهُمْ اِلَى بَعْضِهِمْ: بعض کا بعض کی طرف اُلٹنا۔ هَاشَتِ الحَمَلُ فِي العَاظَةِ: بدکنا اور اُدھر اُدھر ہونا۔ صفت ہواش۔ هَؤُوشٌ يَهُؤُوشُ هَؤُوشًا: مضطرب ہونا۔ اور

يقول بعض لاغري كي وجه سے چھوٹے پیٹ والا ہونا۔ القَوْمُ: مضطرب ہونا۔ گدھ ہونا۔

هَؤُوشٌ تَهَؤُوشَا الشُّعْ: ملانا۔ هَؤُوشَتِ التَّرْبِيعُ بِالغَبَارِ: ہوا کا طرح طرح کا غبار اُڑانے کا ملانا۔ القَوْمُ: فتنہ اور اختلاف ڈالنا۔ الشُّعْ: اُدھر اُدھر سے جمع کرنا۔

هَاشَؤُهُمْ مَهَاشَةً: بام ملانا۔ تَهَؤُوشُ القَوْمُ تَهَؤُوشًا وَتَهَاشُؤُهُمْ تَهَاشُؤًا: ملانا۔ تَهَاشُؤُهُمْ اَعْلَى فَلَانٍ: جمع ہونا۔

الْهَاشِيشُ: فاش۔ هَؤُوشٌ كِي تَاكِيدٌ مِيں واقع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ بِالْهَؤُوشِ الْهَاشِيشُ“ وہ بھت تعداد میں لایا۔

الهُؤُوشُ مِمَّ: پیٹ کا خالی ہونا۔ مدد کثیر۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ بِالْهَؤُوشِ وَالْبُؤُوشِ“ وہ لوگوں کی بڑی جماعت لے کر آیا۔

الهُؤُوشَةُ: اسم مرۃ۔ مخلوط جماعت۔ فتنہ و اضطراب۔ جِ هَؤُوشَاتٍ: اور کہا جاتا ہے ”اِيْتَاكُمُو هَؤُوشَاتِ اللَّيْلِ“ اپنے آپ کو رات کے حادث اور کھدبات سے بچاؤ۔ ”وَاتَّقُوا هَؤُوشَاتِ الشُّوقِ“ اس سے بچو کہ بازار میں کوئی تمہارے ساتھ حلیہ کر کے تمہارا مال چرائے۔

الهُؤُوشَاتُ: لوگوں کی جماعتیں۔ اونٹوں کے ریوڑ سال حلال و حرام جمع کیا ہوا۔

الهُؤُوشَةُ: مخلوط جماعت۔ التَهَاشُوشُ: مال حرام۔

المَهَاشُوشُ: حرام طریقہ سے جمع کیا ہوا مال۔ هَاشَ يَهَاشُ هَؤُوشًا: سبک ہونا اور گھبرانا۔

القَوْمُ يَغْضُؤُهُمْ اِلَى بَعْضٍ: ایک دوسرے پر حملہ کا ارادہ کرنا۔ يَهَاشُ وَيَهَاشُ هَؤُوشًا الرَّجُلُ: بغیر تکلف کے قے کرنا۔ اسم الھُوعُ وَالھُوعَةُ۔

هَؤُوعٌ تَهَؤُوعًا الرَّجُلُ مَا اَكَلَهُ: قے کرنا یا اور توبیل کے موقع پر کہا جاتا ہے ”لَا هَؤُوعَةَ مَا اَكَلَهُ“ جو کچھ اُس نے کھایا ہے اس کے حلق سے نکال لوں گا۔

تَهَؤُوعٌ تَهَؤُوعًا: تکلف سے قے کرنا۔ خون کی قے کرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”تَهَؤُوعُ القَيْ“ اس نے تکلف سے قے کی۔ ”وَتَهَؤُوعٌ نَفْسُهُ“ اس نے اپنے

نفس کی قے کی گویا کہ وہ اسے نکال رہا ہے۔ الھُوعُ وَالھُوعَةُ: قے۔ الھُوعُ: مہ ذی تعدد مع هُوعَاتٍ وَأهْوعَةُ۔

الھُوعُ: جیس۔ لاپچی۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ هَاشٌ وَهَاشٌ“ یعنی لاپچی مرد (اور یہ ہاش کا مطلب ہے)

الھُوعُ: ہم۔ بدترین قسم کلاچ۔ الھُوعُ وَالھُوعُ: دشمنی۔ المِهْؤُوعُ وَالْمِهْؤُوعَةُ: لڑائی میں چلانے والا۔ الھُوعُ: بھت چیز۔

الھُؤُوفُ وَالھُؤُوفُ: گرم ہوا۔ ٹھنڈی ہوا۔ الھُؤُوفُ: خیر و برکت سے خالی مرد۔ یو قوف مرد۔ الھُؤُوفَةُ: جماعت۔ گروہ۔

هَؤُوكٌ تَهَؤُوكٌ هَؤُوكًا: اجتناب ہونا۔ صفت هَؤُوكٌ۔ هَؤُوكٌ تَهَؤُوكًا: گڑھا کھودنا۔ هَؤُوكَةٌ: یو قوف بنانا۔

تَهَؤُوكٌ تَهَؤُوكًا وَانْهَاشَ الْهَاشِيتَا: حیران ہونا اور لاپرواہی اور بے فکری کی وجہ سے مشکل میں پھنسا۔ مضطرب القول ہونا۔

الھُؤُوكٌ وَالھُؤُوكُ وَالْاَهُؤُوكُ وَالْمِهْؤُوكُ وَالْمِهْؤُوكَةُ: یو قوف جس میں تھوڑی سی عقل بھی ہو۔

الھُؤُوكُ مِمَّ: تھوڑی عقل کے ساتھ یو قوفی۔ الھُؤُوكَةُ: گڑھا۔

الھُؤُوكُ: حیران و سرگشتہ۔ الھُؤُوكَةُ: هَؤُوكٌ كَا سَؤُوتٍ: اَرْضٌ هَؤُوكَةٌ وَهَؤُوكَةٌ: زمین شور۔

الْاَهْؤُوكَةُ: تھیر لوگ۔ الْمَهْؤُوكُ: حیران۔ ہلاکت کے گڑھے میں کرنے والا۔

هَاشَ يَهُؤُوشُ هَؤُوشَا الاَمْرُ فَلَانًا: گھبراہٹ میں ڈالنا۔ خوفناک ہونا۔

هَاشَ هَؤُوشًا الشُّعْرَانُ: حالت نشہ میں مختلف قسم کے رنگ دیکھ کر گھبرانا۔ کہا جاتا ہے ”هَلَّتْ وِئَانُهُ“ میں اس سے گھبرایا۔

هَؤُولةٌ تَهَؤُولةٌ: گھبراہٹ میں ڈالنا۔ هَؤُولَتِ العَزَاةُ: لباس اور زیورات سے مزین ہونا۔ هَؤُولُ الاَمْرِ: بُرَا دیکھنا۔ عِنْدِي الاَمْرُ:

اپنے دوست سے دوستی کرو جس میں افراتنہ ہو۔
 الہون۔ مہ - رسوائی۔ قرآن میں ہے
 "فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ" مخلوق
 کہا جاتا ہے "مَا أَدْرَى أَيُّ الْهُونِ هُوَ" مجھے
 نہیں معلوم وہ کون مخلوق ہے۔
 الہونۃ۔ تسکین۔ صلح۔ ج ہون (۱) —
 والہونۃ، آہستگی سے کام کرنے والی عورت۔
 الہیئۃ۔ اسم نوح۔ سکون۔ وقار۔ کہا جاتا ہے
 ائمش علی ہینیک نری سے چلو۔
 الہونۃ۔ نری ولامت۔ اور یہ ہونۃ کی قصر
 ہے اور ہونۃ اہون کی تانیہ ہے۔
 الہین والہین۔ نرم۔ کمزور۔ ذلیل۔ آہستہ
 کار۔ ج اہوناء و ہینون و ہینون و مؤنت
 ہینتہ و ہینتہ ح ہینتہ و ہینتہ۔
 الہون۔ اسم تفضیل۔ نرم۔ آسان۔ کہا جاتا
 ہے "هُوَ اهُونُ عَلَیْہِ" وہ اس پر آسان ہے۔
 الہونین و الہونان۔ دور جگہ یا پست ہموار
 زمین ج مہونۃ۔
 الہونان۔ بہت نرم ج مہاونین۔
 الہونان۔ رسوائی۔ کہا جاتا ہے "زَجُلٌ لِّیْہِ
 مہانۃ" کمزور و ذلیل مرو۔
 تہونۃ الزجل۔ دور مند ہونا۔
 الہونۃ و الہونۃ۔ بزدل۔
 الہونۃ۔ دای تابی باتیں۔
 الہونۃ۔ بیوقوف (۱) — الہونۃ کتوان
 جس میں اترنے والے کے لیے کوئی سارا نہ ہو۔
 زجل ہونۃ۔ کمزور و بیوقوف۔
 الہونۃ۔ کنارہ۔ روشدان۔
 الہونۃ۔ پست زمین۔ گمراہ۔ فضاء آسانی۔ ج
 ہوی و ہون ہوی۔
 الہونۃ۔ پست زمین۔ گمراہ۔
 ہونۃ تہونۃ ہونۃ الطغنة۔ نیزے کے زخم
 کا چوڑا ہونا — العقاب۔ عقاب کا شکار و نمبر پر
 نوٹ پڑنا — یدینی لہ۔ ہاتھ کا برص اور بلند ہونا
 — التریخ۔ ہوا کا چلنا — التافۃ بڑا کبھی
 اونچی کا تیز و زنا۔ ہوی الزجل۔ مرنا — لہی
 الشیر۔ گزرتا — لہی الارض۔ جانا۔
 ہوی ہونۃ ہونۃ ہونۃ و ہونۃ تانۃ الشی

سے سر جھکانا۔ تھوڑا سا سونا۔
 الہون۔ سخت پیاس۔
 الہون۔ پست زمین۔ بلکی نیند۔ ہونۃ الموحوس
 چنبیلی کے مانند ایک پودہ۔ اس کو ہونۃ الموحوس
 اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آتش پرست اس کو
 عبادت کے موقع پر استعمال کرتے ہیں اور اس
 کے بہت منافع بیان کرتے ہیں۔
 الہونۃ۔ ہر چیز کا سرا۔ دھڑ بھری اطلاق ہوتا ہے۔
 سردار قوم۔ لوگوں کی جماعت۔ گھوڑا۔ ج ہام و
 ہامات۔ الہونۃ۔ ایک چھوٹی جسم کا اٹو جس کو
 "الصہی" بھی کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے "ہذا
 ہامۃ الیوم او غد" یعنی وہ آج یا کل مر جائے گا
 "و اصبیح فلان ہامۃ" فلاں مر گیا۔ نبات
 الہام۔ دروغ کا مغز۔
 الہون۔ ریگستان جو کبھی سیراب نہ ہوتے ہوں۔
 قوم ہون۔ پیاسے لوگ۔
 الہونۃ و الہونۃ۔ بے آب و گیاہ میدان۔
 الہون۔ شیر۔
 الہون۔ بڑے سرو والا۔
 ہان ہون ہون ہونۃ الہونۃ علی فلان : نرم و
 آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے "ہن عندی الیوم" یعنی
 آج میرے پاس اقامت کرو اور آرام کرو۔
 ہان ہون ہون ہونۃ و مہانۃ و مہانۃ الزجل :
 ذلیل و حقیر ہونا۔ کمزور اور تسکین ہونا۔
 ہون تہونۃ علیہ الہونۃ : نرم و ہلکا کرنا۔ کہا جاتا
 ہے "ہون علیک" کوئی پروا نہ کرو۔ ہون الشی :
 بچ بچنا۔
 ہاون مہاونۃ۔ نفسہ : نرمی کرنا۔
 اہانۃ اہانۃ۔ حقیر و بچ بچنا۔
 ہاون بہ تہاونۃ و استہان بہ استہانۃ۔ حقیر
 سمجھنا۔ استہانۃ کرنا۔ بچ بچنا۔
 ہونۃ اہونۃ المفازۃ : بیابان کا وسعت
 کے ساتھ پست ہونا۔
 الہاون و الہاون و الہاون۔ دو اور نمبر کوٹنے
 کا ہون ج ہون و ہون۔
 الہون۔ مہ۔ سکون و وقار۔ کہا جاتا ہے "ائمش
 علی ہونک" یعنی اپنی روش پر چلو۔ "وہذا اشقی
 ہون" یہ حقیر چیز ہے "أحبب حبیبک ہونۃ ما"

خونک بنا۔ القوم علی الزجل بکذا :
 گھبرانا — علی الزجل : جملہ کرنا۔
 تہون تہونۃ الزجل : خونک ہونا —
 مائۃ : نظریہ لگانے کا ارادہ کرنا۔
 اہتال اہتبالاً۔ گھبرانا۔ تم کہتے ہو "ہلئہ
 فاهتال" میں نے اس کو گھبراہٹ میں ڈالا وہ گھبرا
 گیا۔
 استہان تستہیل فلان الہون : خونک بنا۔
 بعض لوگ۔ "تستہونۃ" کہتے ہیں مگر جید لغت
 "تستہونۃ" ہی ہے۔
 الہائل۔ گھبراہٹ میں ڈالنے والا۔ من
 الہون : خونک۔ تاکید کیلئے کہا جاتا ہے "ہون
 ہائل" مانند "تیل لیل" کے۔
 الہال۔ سراب۔
 الہون۔ مہ۔ خوف۔ ج اہون و ہون۔
 ابو الہون۔ ایک شاعر کا نام۔ اہرام مصر کے
 قریب ایک مجسمہ۔
 الہونۃ۔ چاند کا کندل۔
 الہونۃ۔ خوف دلانے کی آگ۔ اس کی صورت
 یہ ہو کرتی تھی کہ کسی کونین میں آگ روشن
 کرتے تھے اور اس میں نمک اور گندھک ڈالتے
 تھے جب آگ بھڑک جاتی اور نمک پختے لگتا تو
 اس شخص سے جس کو قسم کھانی ہوتی تھی اور وہ
 پہلے سے وہیں موجود ہوتا تھا کہا جاتا کہ یہ آگ تمھ
 کو دھکا رہی ہے اور وہ قسم کھانے سے اعراض
 کرتا۔ وہ چیز جس سے بچ کر ڈرایا جائے۔ تعجب۔
 الہونۃ۔ کسی کام کا خوف۔
 الہونۃ۔ سرخ زرد۔ سبز مختلف قسم کے
 رنگ۔ تصاویر اور زیورات کی زینت۔ واحد
 تہونیل۔ تہونیل التریخ : موسم ہمارے مختلف
 رنگ کے پھول۔
 التہونیل۔ مہ۔ ڈرانے کی چیز۔
 المہال و المہیل۔ خونک جگہ۔
 المہول۔ خونک۔
 المہول۔ نا۔ اور تاکید کیلئے کہا جاتا ہے "ہون
 مہول"
 المہول : جسم کھلانے والا۔
 ہون تہونۃ و تہونۃ تہونۃ۔ آگ کے وجہ

اوپر سے نیچے کرنا بلند ہونا۔ اور چڑھنا اور کما گیا ہے کہ **الْهَوِيُّ يَفْتَحُ الْهَيْأَةَ** ارتفاع کے لیے اور **الْهَوِيُّ** انحدار کے لیے۔ **هَوْتُ** الْأُمُّ بِلَاك ہونا اور بقول بعض لڑکاکم کرنا۔ صفت **هَوِيَّةٌ**۔ **هَوِيٌّ** يَهْوِيُّ **هَوِيَّةٌ**۔ **الْحَبِيبُ** بہاڑ پر چڑھنا۔ **هَوْتُ** تَهْوِيُّ **هَوِيًّا** الْأَدْنُ: کان کا سنسنا۔ **هَوِيَّةٌ يَهْوَاهُ هَوِيٌّ**۔ محبت کرنا۔ خواہش کرنا۔ صفت **هَوِيٌّ**۔

هَوَاوَاهُ مُهَوَاوَةٌ وَهَوَاءٌ۔ مداراٹ کرنا۔ **هَوَاوِيٌّ** فَلَانٌ: تیز چلنا۔

أَهْوَى إِهْوَاءَ الشَّيْءِ: گرتا۔ **أَهْوَتْ** يَدَيْهِ لَهُ: ہاتھ کا بڑھنا اور بلند ہونا۔ اور کما جاتا ہے **"أَهْوَى** إِلَيْهِ يَدَيْهِ لِئَاخُذَهُ" اس نے پکڑنے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک باہ زائدہ ہے۔ اور اس کی اصل **"أَهْوَى** يَذُهُ إِلَيْهِ" ہے۔ یعنی اس نے اس کی طرف ہاتھ جھکا دیا۔ اور کما گیا ہے **"أَهْوَيْتُ بِالشَّيْءِ"** یعنی میں نے اس کا اشارہ کیا۔ **"وَأَهْوَيْتُ لَهُ بِالشَّيْفِ فَاطْرَتْ أَرْتِيَةَ أَنْفِيهِ"** یعنی میں نے اس کی طرف تلوار سے اشارہ کیا اور اس کی ناک کا بانسہ اڑا دیا۔ **أَهْوَتْ** الْعُقَابُ: اور عقاب کا شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ **أَهْوَى** الشَّيْءُ: اور چھ سے گرا۔

تَهَاوَى الْقَوْمُ فِي الصَّهْوَةِ: بعض کا بعض کے پیچھے گزرنے میں گرتا۔ **تَهَاوَى** الرَّجُلُ: تیز چلنا۔

أَهْتَوَى إِهْتَوَاءً إِلَيْهِ بِشَيْءٍ: اشارہ کرنا۔

أَهْتَوَى إِهْتَوَاءً الشَّيْءُ: اوپر سے نیچے کرنا۔

اسْتَهْوَاهُ اسْتِهْوَاءً: سرگشتہ و حیران بنا دینا۔ مدہوش کر دینا۔ عشق کو مزین کر کے دکھانا۔

الْهَوَاوِي۔ فا۔ ٹڑی۔ حرف الف کو بھی "ہاوی" کہتے ہیں اس وجہ سے کہ واؤ اور یا کے مخرج سے اس کا مخرج زیادہ وسیع ہے اور معنی ذُو الْهَوَاءِ کے ہیں جیسے نابل" یعنی ذُو النَّبْلِ وَالنَّاسِبُ یعنی ذُو النَّشَابِ۔ **الْهَوَاوِيَّةُ** قضا۔ پتہ گم کرنے والی عورت۔ **هَوَاوِيَّةٌ**۔ دوزخ۔ معرہ اور غیر معرہ ہے اور کبھی الف لام بھی صفت کا لحاظ کر کے داخل

کرتے ہیں۔

الْهَوَاءُ۔ فضاء آسانی۔ ج **أَهْوَيْتُ**۔ خالی چیز۔ بزدل۔ واحد اور جمع اس میں برابر ہیں۔ کما جاتا ہے **"هُوَ هَوَاءٌ** أَوْ هَمٌّ هَوَاءً" وہ بزدل ہے یا وہ سب بزدل ہیں۔ **الْهَوَاءُ**: ہر وہ چیز جس کا پھلا حصہ پھٹ گیا ہو۔ جس کی وجہ سے چیز کی حفاظت نہ ہو سکے جیسے توشہ دان کہ جس کا پھلا حصہ پھٹ گیا ہو۔ **هَوَا** کا اطلاق ہر اس بننے والی چیز پر بھی ہوتا ہے جس کو تم سو گھ سکو۔

الْهَوَاءُ وَ **الْيَوَاءُ**۔ کبھی نرمی اور کبھی سختی سے معاملہ کرنا۔ کما جاتا ہے **"عَامِلَةٌ بِالْهَوَاءِ وَ بِالْيَوَاءِ"** اس نے اس سے نرم گرم معاملہ کیا۔

الْهَوِيُّ۔ **هَوِيٌّ** کا مصدر۔ خواہش۔ عشق چاہے خیر ہو یا شر۔ محبوب و معشوق محمود ہو یا مذموم مگر غیر محمود کا غلبہ ہے۔ کما جاتا ہے **"فَلَانٌ اِتَّبَعَ هَوَاهُ"** فلاں نے اپنی خواہش نفس کا اتباع کیا اور بد امت کے وقت بولا جاتا ہے۔ ایسا ہی **"فَلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ"** فلاں ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔

الْهَوِيُّ۔ مشتاق۔ شائق۔ مؤنث **هَوِيَّةٌ**۔ **الْهَوِيُّ**۔ کان میں سنسناہٹ۔ محبوب اور کما جاتا ہے **"مَضَى هَوِيٌّ** أَوْ هَوِيٌّ مِنْ اللَّيْلِ" رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ **"وَجَلَسْتُ عِنْدَهُ هَوِيًّا"** میں اس کے پاس رہ کر بیٹھا رہا۔

الْهَوِيَّةُ۔ گمراہ کنواں ج **هَوَايَا**۔

الْأَهْوِيُّ۔ **هَوِيٌّ** کا اسم تفضیل۔ تم کہتے ہو **"هَذَا الشَّيْءُ أَهْوَى** إِلَيَّ مِنْ كَذَا" یہ چیز میرے نزدیک فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہے۔

الْأَهْوِيَّةُ۔ فضاء آسانی۔ گمراہ گڑھا۔ کما جاتا ہے **"مَضَى تَهْوَاهُ مِنْ اللَّيْلِ"** یعنی رات کا ایک حصہ گزر گیا۔

الْمَهْوِيُّ وَ **الْمَهْوَاةُ**۔ فضا۔ دو بہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ ج **مَهَاوَةٌ**۔

هَاءٌ يَهْوِيٌّ عَوْ هَوِيٌّ يَهَاءُ وَ يَهْيَاءُ وَ هَبِيٌّ وَ يَهْبِيٌّ وَ هَيَاءٌ وَ هَيْبَاءَةٌ۔ خوش شکل ہونا۔ **هَاءٌ يَهَاءُ هَيْبَاءَةٌ** إِلَيْهِ: مشتاق ہونا۔ **يَهْيَاءُ وَ يَهْبِيٌّ هَيْبَاءَةٌ** لِلْأَمْرِ تيار ہونا۔

هَيْبَاءَةٌ تَهْبِيَةٌ وَ تَهْبِيَةٌ۔ درست کرنا۔ تیار ہونا۔

هَيَابَةٌ مُهَيَابَةٌ فِي الْأَمْرِ: موافقت کرنا۔ کبھی ہمزہ کو یاء سے تخفیفاً بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں **"هَيَابِيَّةٌ مُهَيَابَةٌ"** کما جاتا ہے **"هَيَابَةٌ** فِي ذَارِ كَذَا" یعنی کچھ مدت تک ایک بہا اور کچھ مدت تک دو سرا۔ اور بقول بعض اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک نے اپنے حصے سے نفع اٹھایا۔

تَهَيَّبْتُ تَهَيَّبْتُ لِلْأَمْرِ: تیار ہونا۔ آمادہ ہونا۔ مستعد ہونا۔ **الشَّيْءُ لِلْفُلَانِ**: قدرت دینا۔

تَهَيَّبْتُ أَوْ تَهَيَّبْتُ عَلَى الْأَمْرِ: باہم موافقت کرنا۔ **عَلَى كَذَا**: مجتمع ہونا۔

الْهَيْبَةُ وَ **الْفَيْبَةُ**: کھانے پینے کا بلاوا۔

الْهَيْبَةُ وَ **الْهَيْبَةُ**۔ حالت۔ کیفیت۔ شکل صورت ج **هَيْبَاتٌ**۔ **عِلْمُ الْهَيْبَةِ**: وہ علم جو اجرام سماویہ کے احوال سے بحث کرے۔

الْهَيْبِيُّ وَ **الْهَيْبِيُّ**: خوش شکل۔

هَيَابَةٌ يَهَابَةٌ هَيْبَانًا وَ هَيْبَانَةً وَ مَهَابَةٌ خَوْفٌ كَرَاهًا۔ چمٹا۔ چونکا رہنا۔ صفت فاعلی **هَائِبٌ** وَ **هَيْبُوتٌ** وَ **هَيْبِيَّةٌ** وَ **هَيْبَانٌ** وَ **هَيْبَانَةٌ** وَ **هَيْبَانٌ** وَ **هَيْبَانَةٌ** اور **مَهْبُوتٌ** وَ **مَهْبُوتٌ** وَ **مَهْبُوتٌ** اور **هَيْبَانٌ** اس کو کہتے ہیں جس سے لوگ ڈریں۔ اور ایک لغت **هَيَابَةٌ** يَهْيَبُهُ كِي جَمْعِيٌّ هَيَابٌ التَّرَجُّلُ فَلَانًا: تعظیم و توقیر کرنا۔

هَيْبَةٌ تَهْيَبُ إِلَى الْفُلَانِ: بیعت دار بنانا۔ رعب دار بنانا۔

أَهَابٌ إِهَابَةً الرَّاعِي بِغَنَمِهِ: بکریوں کو ٹھہرنے یا لومنے کے لیے چلانا۔ **بِالْأَبْلِ** اُونُوتُوس کو **"هَابٌ"** کہہ کر ڈانٹنا۔ **بِالْحَبِيبِ** گھوڑے کو **هَبْتُ** يَاهِبِيٌّ کہہ کر بلانا یا ڈانٹنا۔ **أَهَابٌ** بِصَاحِبِهِ: پکارنا۔ بلانا۔

تَهَيَّبَةٌ تَهَيَّبْتُهَا: خوف کرنا۔ گمراہی میں ڈالنا۔ خوف دلانا۔ کما جاتا ہے **"تَهَيَّبْتَنِي زَيْدٌ"** زید نے مجھ کو خوف دلایا۔

إِهْتَابٌ إِهْتَابَانًا: ڈرنا۔ خوف کرنا۔

الْهَابُ۔ سانپ۔

الْهَيْبَةُ۔ دم۔ خوف۔

الْهَيْبَانُ۔ لوگوں سے ڈرنے والا۔ بزدل۔ اکا۔ چرواہا۔ مٹی۔ اونٹ کے منہ کے جھاگ۔ بست۔

الْأَهْيَابُ۔ زیادہ رعب والا۔

الہاد۔ مہ۔ اونٹ کی ڈانٹ کا کلمہ۔ کہا جاتا ہے
”مائلہ ہادی“ یعنی وہ ایسا ہے کہ نہ تو اسے منع کیا جا
سکتا ہے نہ ڈانٹا جاسکتا ہے۔

الہیڈ۔ مہ۔ مضطرب و پریشان۔

الہیڈان۔ بزدل۔ مضطرب۔ بیوقوف۔ بخل۔

ہیڑ۔ ہفتہ ہفتہ ہوز ہفتہ ہوز میں ایک لغت۔

الہیڈار۔ جو مندم اور ساقط ہو۔

الہیڈر والہیڈر۔ باد شمالی۔ الہیڈر والہیڈر من
النبیل: رات کا نصف اول۔ زجل ہیڈر:
لاپروائی سے کاموں میں گھس پڑنے والا۔

الہیڈر۔ نرم زمین۔

زجل ہیڈر۔ زرد مراد۔

الہیڈرون۔ ایک قسم کی سمجور۔ واحد ہیڈرون۔

ہاس ہیڈس۔ ہینسا الشی و من الشی
بکثرت لیمان۔ فلان: تیز چلنا۔

الاہیس۔ ہمار۔ بہت کھانے والا۔

من الایلی: کسی چیز سے نہ رکنے والا اونٹ۔
الہیس۔ مہ۔ جوتے کے لیے بیلوں کی جوڑا اور
بتول ہیض اس کا کل سامان۔

ہاس ہیڈس۔ ہینسا الشی: خراب کرنا۔

باڈا۔ القوم: جوش و حرکت میں آنا۔ کہا جاتا

ہے ”ہشتم علیتنا“ تم ہم لوگوں کے اوپر جوش

و حرکت میں آئے۔ فلان: بہت بولنا۔

الثاقہ: اونٹنی کو آہستہ آہستہ دوہنا۔ المقال:

جمع کرنا۔ الرجیل: شاد ہونا۔

الہیڈس۔ مخلوق جماعت۔ اضطراب۔ قذبح

ہیڈس۔

ہاض ہیڈس۔ ہینسا بالشی: سختی برتا۔

عظفہ: گردن توڑنا۔ الطیڑ: پرندہ کا بیٹ

کرنا۔

المہایص۔ پرندہ کے بیٹ کرنے کی جگہ۔

واحد مہیص۔

الہیص۔ پرندے کی بیٹ۔

ہاض ہیڈس۔ ہینسا الطایر: پرندہ کا بیٹ

کرنا۔ فلان العظم: ہڈی کو جڑ جانے کے بعد

توڑ دینا۔ اور کہا جاتا ہے ”تفائل المریض

فہا حاد کذا“ مریض اٹھ کڑا ہوا تھا کہ اس کو

فلان چیز نے پھر دوبارہ جلاء مرض کر دیا۔

الأرض: سوکھی نباتات والی ہوتی۔ حاج الایلی:

اونٹوں کو رات میں گھاس یا گھاس کی طرف چلانا۔

کہا جاتا ہے ”ہاجت السماء فمطرنا“ آسمان

میں ابرو باد ظاہر ہو اور ہمارے اوپر بارش ہوگی۔

ہیج تھیجنا الشی: برا گینت کرنا۔ بجزکانا۔ کہا

جاتا ہے ”ہیج ینتھما الشر“ اس نے ان دونوں

کے درمیان شرفساد کو بجز کا دیا۔

ہایجہ و مہایجہ و ہینجا۔ برا گینت کرنا اور

لڑائی کرنا۔

أهأجت إهأجة الریح التبت ہوا کا نباتات کو

خٹک کرنا۔

أهأجت إهأجا الأرض: سوکھی نباتات والی پانا۔

تھیج تھیجنا۔ برا گینت ہونا۔ بجزکانا۔

تہایج تہایجنا القوم: باہم لڑائی کرنا۔

إهأجت إهأجا الشی: بجزکانا۔

الہایج فا۔ جوش۔ غضب۔ کہا جاتا ہے ”ہاج

ہایجہ“ اس کا غصہ بھڑک گیا ”وہذا ہایجہ“

اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

الہایجہ۔ الہایج کا مونت۔ أرض ہایجہ:

خٹک یا زرد شدہ گھاس والی زمین۔

الہیج۔ مہ۔ لڑائی۔ زردی۔ خٹک شدگی۔

حرکت۔ تیز ہوا۔ کہا جاتا ہے ”یوم ہیج“ ہوا یا

بادل بارش کا دن۔ جب بادل اول اول اٹھنا شروع

ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ”ہاج لہ ہیج حسن“

شی ہیج و مہیج۔ بھڑکی ہوئی چیز۔ مونت

کے لیے بھی ہیج مستعمل ہے۔

الہایجہ۔ مینڈکی۔ ج۔ ہایجات۔

الہیجنا و الہیجنا۔ لڑائی۔

ہادہ ہیڈہ ہیندا و ہادہ۔ گھبراہٹ میں ڈالنا۔

غم زدہ کرنا۔ ہلانا۔ درست کرنا۔ زائل کرنا۔ مندم

کرنا۔ باز رکھنا۔ بجزکانا۔ ڈانٹنا۔ کہا جاتا ہے ”ہا

یہیڈنی ذلک“ یہ چیز مجھ کو برا گینت نہیں کرتی اور

نہ اس کی میں پروا کرتا ہوں۔ بعض کا قول ہے کہ

یہیڈ کا استعمال حرف نفی کے ساتھ خاص ہے۔

ہیڈہ تھیڈنا۔ مجھے ہادہ (ذکورہ بالا محلی

میں) ہیڈ الرجیل: تیز چلنا۔ کہا جاتا ہے ”ماہیڈ

عن شیمی“ وہ مجھے گالی دینے سے نہ بچے بنانا۔

رکا۔

مکان مہات و مہوت۔ خوفناک جگہ۔ کہا
جاتا ہے ”هذا الشی مہتہ لك“ یعنی یہ چیز
تمہارے لئے ڈر کا باعث ہے۔

ہیت تھیٹھا فلان۔ چلانا۔ پکارنا۔

ہات اسم فعل مجنی۔ اعلیٰ۔ کہا جاتا ہے

”ہات یا زجل و ہاتی یا امرأة و ہاتی یا

زجلان و یا امرأتان و ہانوا یا زجل

و ہاتین یا نساء“

الہیت۔ بہت گرمی زمین۔ کہا جاتا ہے ہیت

و ہیت لک (شمیث التاء فیہما) یعنی ہلم

و تعال یعنی آؤ حاضر ہو واحد جمع مذکر مونت میں

کوئی فرق نہیں۔ مگر عدد کا اظہار بعد والے کلمے

میں ہوتا ہے جیسے ہیت لکما و ہیت لکم و

ہیت لکن۔

ہات ہیڈت ہینا و ہینانا فلان توہڑا سا

دینا۔ من المال: ضرورت کے مطابق پانا

— فی الشی: فساد ڈالنا اور ایسا ہی ہات

الذبت فی الغنم: بھیرینے بکریوں میں جاہی

ڈالنا۔ برو علیہ التراب منی کو پاؤں سے کریدنا

— ہینا القوم: بھڑکے کے وقت آپس میں

ایک دوسرے سے گتہ جانا۔ الشی: ہلنا۔

ہایجہ مہایجہ۔ کثرت مال یا کثرت عدد پر فخر

کرنا۔

تھیٹ تھیٹا لہ شینا۔ دینا۔

تہانوا۔ بھڑکے کے وقت آپس میں ایک

دوسرے سے گتہ جانا۔

استہات استہاتہ۔ ما أعطاه: زیادہ کرنا

— المال: چاہ کرنا۔

الہیت۔ حرکت۔

الہیڈہ۔ لوگوں کی جماعت۔

ہایجہ القوم: قوم کا شور۔

المہایٹ۔ بہت لینے والا۔

ہاج ہیج ہیجنا و ہیجنا و ہیجانا

الشی: بجزکانا۔ برا گینت ہونا۔ البحر: سمندر

کا جوش مارنا۔ الرجیل: بیوقوفی سے مضطرب

ہونا۔ ہمار ہونا۔ کود پڑنا۔ الشی و بالشی:

برا گینت کرنا ہاجت الایلی۔ اونٹوں کا پیا سا ہونا۔

ہاجت التبت: نباتات کا خٹک ہونا۔ ہاجت

الْحُزْنُ قَلْبُهُ بِرَأْسِ رَأْسِهِ لَمْ يَلْحِقْ هُوَا -
خاصہ توڑنا اور ریزہ ریزہ کرنا۔
هَيْضَةٌ: براگینیز کرنا۔ بھڑکانا۔ اکسانا۔

تَهَيَّضُ تَهَيَّضًا وَإِنْفَاضًا الْهَيْضَةُ الْعَظُمُ:
بڑی کا جڑ جانے کے بعد ٹوٹنا۔ تَهَيَّضَةُ الْمَرْضُ وَ
نَحْوُهُ: بیماری کا بار بار ٹوٹنا۔
إِنْفَاضُ الْهَيْضَةِ الْعَظُمُ: بڑی کو جڑ جانے
کے بعد ٹوڑنا۔

الْهَيْضُ: برنسے کی بیٹ۔
الْهَيْضَةُ: لوگوں کی جماعت۔

الْهَيْضَةُ: حاض کا اسم مرۃ۔ رنج و غم کا عود۔
بیماری کے بعد بیماری۔ بیٹ کا چلنا هَيْضَةُ
الْكُرْبَى: نیند لاحق ہونے کی وجہ سے سستی
عَظُمُ تَهَيَّضُ جُرْنُكُ لَمْ يَلْحِقْ هُوَا تَهَيَّضُ هُوَا تَهَيَّضُ
الْمُسْتَهْضِضُ: وہ شخص جس کی بڑی جڑ جانے
کے بعد دوبارہ ٹوٹ جائے، وہ مریض جو صحت
پانے کے بعد دوبارہ بیمار ہو جائے۔

هَاطَ هَيْضًا هَيْضًا: شور مچانا۔
هَاطَ هَيْضًا هَيْضًا وَ هَيْضًا هَيْضًا: شور مچانا۔
فَلَانًا: کزور سمجھنا۔

تَهَيَّضُ تَهَيَّضًا الْهَيْضَةُ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا اور آپس میں
اسے محلات کو درست کرنا۔

الْهَيْضَةُ: کہا جاتا ہے "مَازَالَ فِي هَيْضٍ وَ
هَيْضٍ" وہ ہمیشہ شور و غوغا اور برائی میں رہا۔ کہا جاتا
ہے "هَيْضٌ فِي هَيْضٍ وَ هَيْضٌ فِي هَيْضٍ" لوگ اضطراب اور
آنے جانے میں ہیں۔

هَاطَ يَهَيِّضُ وَ يَهَيِّضُ هَيْضًا الشُّيْ: زمین پر
پھیلانا۔ الرِّضَاضُ: پھیلنا۔ الرُّجُلُ: بھوکا
ہونا۔ الإِبِلُ إِلَى الْمَاءِ: خواہش مند ہونا۔
الرُّجُلُ: تکلف سے کرنا۔ هَيْضًا وَ هَيْضَةً وَ
هَيْضًا وَ هَيْضَةً وَ هَيْضَةً: بزدل ہونا۔ گھبرانا
— هَيْضَةً وَ هَاطَ: سخت حریص ہونا۔ مِنْ
الشُّيْ: تنگ دل ہونا، رنج ہونا۔

تَهَيَّضُ تَهَيَّضًا وَ إِنْفَاضًا الْهَيْضَةُ الشُّيْ: زمین
پر پھیلانا۔ کہا جاتا ہے "تَهَيَّضُ وَ إِنْفَاضُ الشُّرَابِ"
سراب زمین پر پھیلا ہوا ہے۔

الْهَيْضُ: نا۔ لیلِ هَاطَ: تاریک رات۔ کہا جاتا
ہے "رَجُلٌ هَاطَ لَيْلًا" بزدل۔ کزور۔ گھبرانے

والامرد۔

الْهَيْضَةُ: الْهَيْضَةُ كَالْمَوْثِ: تیز آواز۔ دشمن کی
آواز جس سے تم خوف کرو اور گھبراؤ۔

الْهَيْضُ: بھیلنا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ هَيْضٌ
لَيْحًا" تیز ہوا۔

الْهَيْضُ: سخت لالچ۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ هَاطَ
لَيْحًا" یعنی کزور بزدل مرد۔ اور ایسا ہی اِمْرَأَةٌ
هَاطَةٌ لَيْحَةٌ

الْهَيْضَةُ: دشمن کی آواز جس سے تم خوف کرو
اور گھبراؤ۔ سطح زمین پر بننے والی چیز۔ سخت لالچ۔ ہر
آواز یا برائی جو تم کو گھبراہٹ میں ڈال دے۔
أَرْضٌ هَيْضَةٌ: کشادہ پھیلی ہوئی زمین۔

رَجُلٌ هَيْضٌ لَيْحٌ: کزور گھبرانے والا مرد۔
الْمُسْتَهْيِضُ: برائی کی طرف جلدی کرنے والا۔
حیران۔

الْمُسْتَهْيِضُ: کھلا ہوا کشادہ راستہ۔ اور کہا جاتا ہے
"ظَرْفٌ هَيْضٌ" ح مہنوع۔ بَلَدٌ هَيْضٌ: کشادہ شہر
هَيْضَةٌ هَيْضَةٌ: الْمَرْأَةُ: بدکار ہونا (—
وَ تَهَيَّضَتْ) ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا۔

الْهَيْضَةُ: مہ۔ - خفت۔ طیش۔ بھوتی۔ بدکار
عورت یا ایک حالت پر قائم نہ رہنے والی عورت۔
هَيْضٌ تَهَيَّضًا الْمَطْرُ الْأَرْضُ: بارش کا زمین کو
اچھی طرح سے تر کرنا۔

أَهْيَعُ الْقَوْمُ: قوم کا خوش حال ہونا۔
الْأَهْيَعُ: تروتازہ زندگی۔ بہت پائی۔ سرسبز۔
وَالْأَهْيَعَانُ: تروتازگی اور اچھی حالت یا کھانا پینا۔

هَاطَ يَهَيِّضُ هَيْضًا: بہت پیاسا ہونا (— يَهَيِّفُ
هَيْضًا، الْعَبْدُ: غلام کا بھگانا۔) — هَيْضًا وَ هَيْضًا،
الإِبِلُ: اونٹوں کا سخت پیاس کی وجہ سے منہ کھول
کر گرم ہوا کی طرف رخ کرنا۔

هَيْضٌ يَهَيِّفُ وَ هَاطَ يَهَيِّفُ هَيْضًا وَ هَيْضًا
الْغَلَامُ: پہلی کمر والا ہونا۔ صفت مذکر اَهِيفُ۔
صفت مؤنث هَيْضًا وَ هَيْضًا

أَهَاطَ إِهَاطَةَ الرَّجُلِ: پیاسے اونٹوں والا ہونا۔
إِهْتَاطٌ إِهْتِاطًا: پیاسا ہونا۔ صفت مہتاف۔
إِسْتَهَاطٌ: بار ہنیف کے گلنے سے پیاسا ہونا
(دیکھئے هَيْضُ)

الْهَاطِيفُ: نا۔ سخت پیاس والا۔

الْهَاطِيفَةُ: هَاطِيفٌ كَالْمَوْثِ: سخت پیاس کی وجہ
سے منہ کھول کر باوصیت کی طرف رخ کرنے
والی اونٹنی (دیکھئے هَيْضُ)

الْهَيْضُ: مہ۔ گرم ہوا جو نباتات کو خشک کر دیتی
اور پانی کو کھاتی ہے اور حیوانات کو پیاس میں
جلا کر دیتی ہے۔ امثال عرب میں سے ہے
"ذَهَبَتْ هَيْضًا لِأَذْيَانِهَا" اس شخص کے لیے
بولتے ہیں جو اپنی عادت پر اڑا رہے، پیاس وقت
جب کہ ہر شخص اپنی اپنی حالت پر متفرق ہو
جائیں۔

رَجُلٌ هَاطٌ: پیاس پر صبر نہ کر سکنے والا۔ اِبِلٌ
هَاطٌ: جلد پیاسے ہونے والے اونٹ۔

الْمُهَيِّضُ وَالْمُهَيِّضَانُ وَالْمُهَيِّضُ: پیاسا۔ سخت
پیاسا۔ جلد پیاسا ہونے والا۔

أَهْيَعُ الْعَلِيمُ: شتر مرغ کا سیاہ ہونا۔

الْمُهَيِّضُ مِنَ الرَّجَالِ: بہت لمبا ترلا۔ اور بقول
بعض لمبا پتلا۔ شتر مرغ، ح اَهْتِاطٌ وَ هَيْضُ
مَوْثٌ هَيْضَةٌ۔

الْأَهْيَعُ: لمبی گردن والا۔

هَيْضٌ تَهَيِّضًا: جلدی کرنا۔ کھودنا۔
هَيْضٌ كَهَيْضٌ كَهَيْضٌ: کھل کھل کر دیکھنے۔

هَاطَ يَهَيِّضُ هَيْضًا عَلَيْهِ الشُّرَابُ: مٹی ڈالنا (شہید
کثرت کے لیے ہے)

تَهَيَّضُ تَهَيَّضًا وَ إِنْفَاضًا الْهَيْضَةُ الشُّرَابُ: مٹی
پڑنا۔ مٹی ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "هَاطَ فَاتَهَيَّضُ
وَ هَيْضَةً فَتَهَيَّضُ" اس نے اس پر مٹی ڈالی اور وہ پڑ
گئی۔ إِنْفَاضًا إِلَى فُلَانٍ: فلاں کو لوگوں نے مارا
پینا گل دی۔

الْهَيْضُ: ڈالی ہوئی ریت۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ
هَاطٌ" مگر ڈالنے والی ریت۔

الْهَيْضُ: مہ۔ گرمی ہوئی ریت یا خاک وغیرہ۔
اسی سے مثال ہے "جَاءَ بِالْهَيْضِ وَالْمُهَيِّضَانِ"
یعنی وہ بہت مال لایا وہ ریت اور ہوا لایا۔

الْمُهَيِّضُ: ڈھیر کی ہوئی ریت۔ جمع شدہ ریت۔
الْمُهَيِّضُ: ڈھیر کی ہوئی ریت۔ جمع شدہ ریت۔
الْمُهَيِّضُ: ہانڈے کے ارد کو اسلحہ جمع حالات۔

الْمُهَيِّضُ: ذرات جو روشن دان میں دھوپ

پڑتے وقت معلوم ہوں۔

الْهَيُولَى وَالْهَيُولَى - مادہ اولیٰ - نسبت کے لئے هَيُولَى وَهَيُولَى ج هَيُولَات - هَيَلَلٌ هَيَلَلَةٌ لِآلِ اللَّهِ كَمَا كَسَا.

هَامَ يَهِيْمُ هَيْمًا وَهَيُوْمًا وَهَيْمَانًا وَتَهِيْمًا مَكْدًا - محبت کرنا — عَلَى وَجْهِهِ آوَارَهُ يَهْرَارُ — هَيْمَانًا يَسَا هَيْمًا - کہا جاتا ہے "هَيْمٌ لِيَتَفَسَّلَ" یعنی اپنی ذات کے لیے طلب کرو اور اسی کے لیے اہتمام کرو۔

هَيْمَةُ الْحُبِّ - محبت کا کسی کو پاگل کر دینا۔ تَهَيَّمَ تَهَيَّمًا الْهَيُوْمِي فُلَانًا - پاگل ہونے پر برا لگینے کرنا — فُلَانٌ اچھی حال چلنا۔ اِهْتَمَّ اِهْتِمَامًا لِنَفْسِهِ - جیلہ کرنا۔ اُسْتَهَيَّمُوا فُرَادَهُ - محبت وغیرہ کی وجہ سے دل کا شیفتہ و سرگشتہ ہونا۔ صَفَتْ مُسْتَهَيَّمَاتُ الْفُرَادِ.

الْهَيْمِ - قا - حیران - ج هَيْمٌ وَهَيْمًا - الْهَيْمَامُ : دوسرے میں چلا عشاق۔ الْهَيْمَامُ - بیٹھ گرتے رہنے والی ریت ج هَيْمٌ - الْهَيْمَامُ - جنون عشق - سخت پیاس - الْهَيْمَامُ : سخت پیاس کی بیماری جو اونٹوں کو ہوتی ہے۔ الْهَيْمَمُ - مہ - کہا جاتا ہے "هَيْمٌ لِلَّهِ" یعنی

"أَيْمٌ لِلَّهِ" یعنی خدا کی قسم۔

الْهَيْمَاءُ - بے پانی کا بیان۔

الْأَهْيَمُ - هَيْمًا کی بیماری والا۔ مَوْثٌ هَيْمَاءٌ ج هَيْمٌ : نِیلٌ أَهْيَمٌ وَلَيْلَةٌ هَيْمَاءٌ : رات جس میں ستارے نہ ہوں۔

الْهَيْمَانُ - پیاسا۔ هَيْمًا کی بیماری والا۔ مَوْثٌ هَيْمِيٌّ ج هَيْمًا وَهَيْمِيٌّ - زَجَلٌ هَيْمَانٌ : محبت کی وجہ سے شیفتہ و سرگشتہ مرد۔

الْهَيْوْمُ - حیران۔

زَجَلٌ أَهْيَمٌ - سخت پیاس والا مرد۔

قَلْبٌ مُسْتَهَيَّمٌ - عشق و محبت کی وجہ سے شیفتہ و سرگشتہ دل۔

الْمُهَيُّومُ - سخت پیاس والا۔ هَيْمًا کی بیماری والا۔ هَيْمَنٌ هَيْمَنَةٌ - آمین کرنا۔

الطَّائِرُ عَلَى فُرَاخِهِ - پرندے کا پتے پر پر پھیلانا۔ فُلَانٌ عَلَى كَذَا - تمہارا ہونا۔

الْمُهَيِّمُ وَالْمُهَيِّمَنُ - اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہیں۔ یعنی خوف سے امن دینے والا یا عمل روزی موت و حیات وغیرہ کا کفیل۔

الْهَيْمَمُ - روٹی۔

الْهَيْمَمَةُ - پست آواز۔

الْهَيْئُومُ - غیر مفہوم کلام۔

هَيْهَ هَيْهَ - کسی چیز کو دفع کرنے کیلئے بولا جاتا ہے (کلمہ استراذہ ہے)

هَيْهَاتَ - بتشمیث الاخر : اسم فعل ہے یعنی دور رہا۔ اور اس میں چند لغات اور ہیں اَيْهَاتٌ وَأَيْهَانٌ وَهَيْهَانٌ وَهَائِيهَاتٌ وَهَائِيهَانَ حَرْفٍ آخِرٍ مِثْلُ تَيْوُنٍ حَرْفَتَيْنِ هُنَّ - معرب بھی ہیں اور بنی بھی۔ اور ایک لغت اَيْهَاتُ ہے۔


هَيْتَا - بعید کے لیے حروف نداء میں سے ہے اور اس کی اصل آہا ہے۔

هَيَّ بْنَ يَنْبُوتَ وَهَيَّانُ بْنُ بَيْتَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ فَخْصٌ جَسَّ كَالْوَالِدِ كَأَمِّي بَيْتًا نَدُو.

هَيَّ - اسم فعل یعنی امر ہے یعنی جس کام میں تم ہو جلدی کرو۔ اس کے آخر میں کاف خطاب لائق ہوتا ہے جیسے زُوَيْدًا اور هَالِكًا میں کہا جاتا ہے هَيْتَا اور بھی تشبیہ کے لیے "هَيْتَا" اور جمع کے لیے "هَيْتُو" کہا جاتا ہے۔

هَيْتَا هَيْتَا اسماء افعال میں سے ہے یعنی جلدی کرو۔

الْهَيْيَاتَةُ - شان۔ معاملہ۔ کہا جاتا ہے "مَا هَيْيَاتُهُ" اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس کی کیا حالت ہے۔



الہاء۔ ضمیر مؤنث کے لیے آتی ہے جیسے
تَقْوَمُنَّ وَتَقْوَمِي۔ اور ضمیر محکم کا کام دیتی ہے
جیسے ضَرْبِي وَكِتَابِي۔

یا۔ حرف ندا ہے۔ بعید و قریب دونوں کے لیے
اور کبھی منادی محذوف ہوتا ہے جیسے "يَا لَيْتَنِي
كُنْتُ مَعَهُمْ" و "يَا رَبِّ كَابِسِي لِي الدُّنْيَا
عَازِيَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ" اور یا یہ کہ ان جیسی
ترکیب میں یا صرف تہیہ کے لیے ہے۔

اور "اَللّٰهُمَّ زَجَلْ وَيَالَهُ زَجَلًا اَوْ مِنْ
زَجَلٍ" و "يَا لَكَ مِنْ فَارِسٍ" جیسی ترکیبوں
میں یا حرف ندا اور لام تعجب کے لیے ہے۔

يَيْسُ يَيْسًا وَيَيْسِي يَيْسًا وَيَيْسَا وَيَيْسَا مَعَهُ :
ناامید ہونا۔ صفت فاعلی یَيْسًا و يَوْسُ و
يَوْسًا۔ جمع فاعلی يَيْسًا و يَوْسًا و
يَوْسًا۔ اور کبھی ییسس جانے کے معنی میں آتا ہے۔
جیسے "اَلَمْ تَيَاسُوا اَنْتَ اَيْنُ فَارِسٍ زَهْدَمٌ" کیا
تمہیں معلوم نہیں کہ میں فارس رہم کا
بیٹا ہوں۔

يَيْسَتِ الْمَرْأَةُ تَيْسًا۔ بانجھ ہونا۔ صفت
یئیس۔

اَكْ يَاسَةٌ اَيْتَاسًا وَاَيْسَةٌ اَيْتَاسًا وَاَيْسَةٌ
ناامید کرنا۔ اَكْ يَاسَ اللّٰهُ الْمَرْءَةَ بِأَجْمَعٍ كَرًا۔

اَيْتَاسٌ اَيْتَاسًا وَاِسْتَيْتَاسٌ اِسْتَيْتَاسًا مَعَهُ :
مایوس ہونا۔

الْيَاسُ وَالْيَيْسَانَةُ۔ تاامیدی۔

يَأْيَأُ يَأْيَأَةً وَيَأْيَأَةُ الْقَوْمُ : پکارنا۔ بِالْأَيْلِ : آئی
کہہ کے ٹھہرانا (آئی ایک کلمہ ہے جس سے
اونٹوں کو ڈانٹتے ہیں)

يَأْيَأُ لَوَاكِلَ الْجَمْعِ هَوْنًا لِيُكْرَهَ لِيُكْرَهَ
اسم صوت۔

الْيَاسَاءُ مَهْمٌ - يَوْسُوَانِي شَكَرِي بِرَبِّهِ كِي حِي -
الْيَوْسُوَانِي : ایک قسم کا شکاری پرندہ۔ باز کے مشابہ
مگر اس سے کچھ چھوٹا جس کو جَلَمٌ بھی کہتے ہیں ج

يَيْسَابِي -
يَيْسَابُ الْمَنْزِلِ : ویران کرنا۔ کہا جاتا ہے "حَوْرِيَّةٌ
وَيَيْسَابُوهُ" انہوں نے اسے تباہ ویران کیا۔

الْيَيْسَابُ : ویران۔ کہا جاتا ہے "مَنْزِلٌ خَوَابٌ
يَيْسَابٌ" ویران منزل۔

الْأَيْبِيدُ : ایک قسم کی نباتات۔

يَيْسُ يَيْسًا وَيَيْسِي يَيْسًا وَيَيْسَا وَيَيْسَا :
خشک ہونا۔ صفت تَبَسٌ وَيَيْسٌ وَيَيْسٌ وَيَيْسٌ وَيَيْسٌ
وَيَيْسٌ وَيَيْسٌ : کہا جاتا ہے "يَيْسُ مَا يَيْسُهُمَا"
ان دونوں کے تعلقات منقطع ہو گئے۔

يَيْسٌ وَيَيْسُ الشَّيْءُ : خشک کرنا۔ اَيْسٌ
الْمَكَانُ : خشک نباتات والی ہونا۔ اَيْسُ الْقَوْمُ :
خشک زمین میں چلنا۔ اَيْسُ الْفَوْذُ خشک ہونا۔ اور
کہا جاتا ہے "اَيْسٌ يَأْزَجُلٌ" یعنی چپ رہو۔

اِسْتَيْسَ الرَّبِيُّ : تھوک خشک ہونا۔

أَلْيَاسُ - فَاجِ يَيْسُ - زَجَلٌ يَإْيَسُ : بے
برکت آدمی۔ حَجَجٌ يَإْيَسُ : سخت پتھر۔

الْيَيْسُ : خشک جس میں کبھی تری نہ رہی ہو۔
خشک جگہ جو پہلے تری ہو شاةً يَيْسُ بے دودھ
کی تیری۔

الْيَيْسُ مَهْمٌ - خَشَكٌ - يَإْيَسُ كِي جَمْعٌ - جَيْسٌ وَكَيْتٌ
کی جمع وَكَيْتٌ : کہا جاتا ہے "وَزَجَلٌ يَيْسٌ" بے
برکت شخص۔

شَيْءٌ يَيْسٌ : خشک چیز۔
الْيَيْسُ مَعَهُ : خشکی۔

يَيْسُ الْمَاءُ : بامید۔
الْأَيْسَانُ : کالی یا پتلی کے کنارے کی ہڈیاں

جن پر گوشت نہیں ہوتا۔
الْأَيْاسُ : سخت چیزیں جن پر تلوار کی آزمائش
کی جاتی ہے اَيْسُ كِي جَمْعٌ -

الْيَيْتَاسُ - پوروں کو خشک کرنے والی ہوا۔
الْيَيْتُوعُ وَالْيَيْتُوعُ - دودھ والے پودے ج
بَيْتُوعَاتٌ -

يَيْتَمٌ يَيْتَمًا وَيَيْتَمِي يَيْتَمًا وَيَيْتَمِي يَيْتَمًا
الصَّبِيُّ مِنْ أَبِيهِ : یتیم ہونا۔

يَيْتَمٌ (ض) يَيْتَمًا : کوتاہی کرنا۔ سستی کرنا۔ ٹھکانا۔
ویر کرنا — مِنْ هَذَا الْأَمْرِ : رہائی پانا۔ تَيْتَمٌ
الصَّبِيُّ : یتیم ہونا۔

يَيْتَمَةٌ وَأَيْتَمَةٌ - یتیم کرنا۔ اَيْتَمَتِ الْمَرْءَةُ تَيْمًا
بچوں والی ہونا۔ صفت مَوْتَمٌ ج مَيَاتِيمٌ -

الْيَيْتِيمُ : نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو — مِنْ
الْبُهَائِيمِ : جس کی ماں مر گئی ہو ج اَيْتَامٌ وَيَتَامِي
وَيَتَمَةٌ وَيَيْتَمَةٌ وَيَتَامِي - اَيْتِيمٌ كَمَا جَاءَ
يَيْتَمٌ وَيَيْتَمٌ وَبَلَدٌ يَيْتِيمٌ - علیحدہ ریگستان۔ بے نظیر۔
بے مش۔

الْيَيْتِيمَةُ - یتیم کا مؤنث۔ ج يَتَامِي - علیحدہ
ریگستان۔ ذُو ذِيَّةٌ يَيْتِيمَةٌ : بیش قیمت بے نظیر موتی۔

الْيَيْتِيمُ مَهْمٌ - غَمٌ -
الْيَيْتِيمُ مَهْمٌ - یگانگی۔ یتیمی کی حالت۔
الْيَيْتِيمُ مَهْمٌ - یگانگی۔ یتیمی کی حالت۔ حاجت۔
اور کہا جاتا ہے "لِيُنْفِئَنَّ يَيْتِيمًا" اس کی حال میں
ضعف و قوت ہے۔

صَبِيٌّ يَيْتِيمَانٌ - یتیم بچہ۔ کہا جاتا ہے اَلْحَزْبُ
مَيْتَمَةٌ یعنی لڑائی بچوں کو یتیم بنانے والی
ہوتی ہے۔

يَيْسَتُ تَيْبِيثًا وَآيَسَتُ اَيْتَانًا الْمَرْءَةُ وَالسَّاقَةُ
الْوَلَدُ : پاؤں کی جانب سے پیدہ ہونے والے بچہ

کو جننا۔ صفت مؤنث و مؤنثہ۔ صفت مفعولی مؤنث اور قیاس مؤنث ہے۔

التیشن۔ وہ بچہ جس کے پر پیدا نش میں پہلے ظاہر ہوں۔

المینجار۔ کھیلنے کا ڈنڈا۔ چوگان۔

الیحفور۔ سرخ۔ چھوٹی دم والا بارہ سنگھا۔

الیحفور۔ بہت کالا۔

یَدْعُ الثَّوْبَ: اَیْدِعْ سے رنگنا (دیکھئے لفظ اَیْدِعْ)

اَیْدِعْ الْحَجَّ عَلَی نَفْسِهِ: احرام کے وقت خوشبو لگا کر حج واجب کرنا۔

الایندع۔ زعفران۔ اور بقول بعض تمم کی کڑی۔

یَدِیْ یَدِیْ یَدِیْنَا الرَّجُلُ: ہاتھ پر مارنا۔ صفت فاعلی یناد۔ صفت مفعولی یتیدی۔

یَدِیْ وَ یَدِیْ یَتِیْدِیْ یَدِیْنَا فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ: فائدہ حاصل کرنا۔ یَدِیْ فُلَانٌ مِنْ یَدِهِ: ہاتھ جاتا رہنا۔ شک ہونا۔ یَدِیْ الرَّجُلُ: کمزور ہونا۔ اور

کما جاتا ہے "اِنَّ لِفُلَانٍ مَالًا یَتِیْدِیْ بِہِ وَ یَتَّبِعُ" اس کے پاس مال ہے جس کی وجہ سے وہ ہاتھ اور باج کو کشادہ رکھتا ہے (باج دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کا نام ہے)

یَادِیْ مِیَادَاةَ الرَّجُلِ: بدلہ دینا یا دست بدست دینا۔

اَیْدِیْ اَیْدَاءٌ عِنْدَ فُلَانٍ وَ اَیْئِه: انعام کرنا۔ صفت فاعلی مؤنث۔ و صفت مفعولی مؤنثی الیہ۔

الیتد۔ ہاتھ۔ پھیل۔ کلہ مؤنث ہے اور اس کا لام محذوف ہے۔ اصل یتدی ہے تشبیہ یتدان ج

الآیدی و الییدی۔ نج الایادی۔ اور آیدی کا اکثر استعمال نعمت کے معنی میں ہوتا ہے اور

الآیدی کی جمع الایدین بھی آئی ہے۔ الید: نعمت و احسان ج یدئی و یدئی و یدئی و آید۔ الید: جاہ و مرتبہ۔ قدرت۔ طاقت۔ کما جاتا ہے

"مَالُكَ عَلَیْہِ یَدٌ" تم کو اس پر طاقت حاصل نہیں۔ ندامت۔ ذلت۔ جماعت۔ کما۔ ظلم سے

بروک۔ راستہ۔ کما جاتا ہے "اَتَّخَذَ بِہِمَّ یَدَ السُّخْرِ" وہ ان لوگوں کو سمندر کے راستہ سے لے گیا۔ فریاد رسی۔ اور کما جاتا ہے "لَقِیْتِہِ اَوَّلَ"

ذَاتِ یَدَیْنِ" میں اس سے سب سے پہلے ملا۔ "وَسَقَطَ یَدَیْہِ" وہ پشیمان ہوا "وَلَعَلَّ یَدَیْہِ نِصَاءٌ" فی ہَذَا الْاَمْرُ" وہ اس کام میں ماہر کمال ہے

"وَ حَضَرَ بَ الْقَاضِیَ عَلَیْ یَدِہِ" قاضی نے اس کو تصرف سے منع کر دیا "وَ اَعْطٰی یَدِہِ" وہ مطیع و فرمانبردار ہوا۔ یَدُ الطَّالِبِ: پرندہ کے بازو۔ یَدُ الدَّهْرِ: بخت زمانہ۔ یَدُ الْقَاضِی: کلمائے کا دست۔ یَدُ الْقَوْسِ: کمان کے دونوں جانب جو جھکائے

جائیں۔ الیتد الغلیبا: دینے والا ہاتھ۔ الیتد الشفلی: مانگنے والا ہاتھ یا روکنے والا ہاتھ۔ اور کما جاتا ہے "الْقَوْمُ عَلَیْہِ یَدٌ وَّاحِدَةٌ" قوم اس کے اوپر ظلم کرنے میں یا دشمنی کرنے میں متفق ہے۔

"وَ هَذَا لَہِ یَدِی" یہ میری ملکیت میں ہے۔ "وَ الْاَمْرُ بِیَدِ فُلَانٍ" معاملہ فلاں کے قبضہ میں ہے۔ وَ یَدِیْ زَہِیْنَةٌ بِکَذَا" میں اس کا ضامن ہوں "وَ لَا یَدِہِیْنِ لَکَ بِہَذَا" تم کو اس کی طاقت نہیں۔ اور امثال عرب سے ہے۔ "یَدُ اللّٰہِ عَلَی الْجَمَاعَةِ" جماعت پر اللہ کی حفاظت ہے "وَ اَلِیْدُ لِفُلَانٍ عَلَی فُلَانٍ" فلاں کو فلاں پر طاقت و غلبہ ہے۔ "وَ یَعْتَنُ یَدًا یَتِیْدُ" میں نے دست بدست بیچ

کی "وَ ذَہَبُوا اَیَادِی سَبَا وَاَیْدِی سَبَا" وہ سب پر آئندہ ہو گئے "یَدُ الْعَجُزِ اَیْ": چند ستارے۔

الیتد۔ بالشدید و الیتدی و الیتدہ۔ ہاتھ۔ ید میں لغات ہیں۔

الیتدی۔ ماہر۔ حاذق۔ ثَوْبٌ یَدِیْ: وسیع کپڑا۔ عَیْشٌ یَدِیْ: آسودہ زندگی۔ (و الیتدی و الیتدی) ہاتھ کی جانب منسوب۔

الیتدیہ۔ ید کی تفسیر۔ الیتدیہ۔ ماہر عورت۔

المؤدی۔ احسان کرنے والا۔ انعام کرنے والا۔

المؤدی الیہ۔ جس پر انعام کیا جائے۔

المتیدی۔ جڑ سے ہاتھ کٹا ہوا۔ ظنیح متیدی: جال میں اگلی ٹانگ چھنسی ہوئی ہرنی۔

الیتوۃ۔ آگ۔

الیتوۃ۔ جو ہے کے مانند ایک جانور جس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پھیلی بڑی اور دم لمبی ہوتی ہے۔ ج۔ یقر ایض۔

التیازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

الیتازج۔ کلن۔ (دخیل)

ج میاسیر۔ اَیَسْرُ الرَّجُلُ: مطالبہ میں سختی نہ کرنا۔ اَیَسْرَتِ الْمَرْأَةِ: آسانی سے جتنا۔

یَاسِرَةٌ مِیَاسِرَةٌ: نرمی برتنا، ہائیں جانب سے آنا۔ یَاسِرُ الشَّيْءِ: ہائیں جانب لینا۔ بِالْقَوْمِ: ہائیں آسانی دزنی کرنا۔

تَیَسَّرَ لِلْقِتَالِ: مقاتلہ کیلئے تیار ہونا۔ الْیَلَادُ: سرسبز ہونا۔ التَّهَارُ: دن کا ٹھنڈا ہونا۔ وَاسْتِیَسَّرَ الْأَمْرُ: آسان ہونا۔ وَاسْتِیَسَّرَ لَهُ الْأَمْرُ: تیار ہونا۔

تَیَاسَرَ: ہائیں آسانی کرنا۔ الرَّجُلُ: ہائیں جانب سے کرنا۔ الْقَوْمُ: ہائیں جانب لینا۔ وَاسْتَسْرَ وَاسْتَسْرَ الْقَوْمُ: جوئے کے ذبیحہ کے گوشت کو ہائیں تقسیم کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "تَیَاسَرَتِ الْأَهْوَاءُ قَلْبَهُ" خواہشات نے اس کے دل کو تقسیم کر لیا۔

الْبَسْرُ وَالْبُسْرُ وَالْبَسَارَةُ: آسانی، نرمی، تواضعی۔ الْبُسْرُ: ایک درخت کا نام جس کا دانہ بہت کالے رنگ کا ہوتا ہے اور خوشبو اچھی ہوتی ہے اس کو کھیلنے کے لئے دھاگے میں پرو لیتے ہیں۔ الْبِیَسَارُ: آسانی۔ تَوَاسَّرَ (یَسْرًا) وَالْبِیَسَارُ: بلیاں جِ بَسْرٍ وَبُسْرٍ۔

الْبِیَسْرُ: مع۔ آسان۔ تیار کیا ہوا۔ جو ا کھیلنے والوں کی جماعت جِ الْبِیَسَارِ: کہا جاتا ہے "رَجُلٌ أَعْسَرَ بَسْرًا" دونوں ہاتھوں سے یکساں کام کرنے والا مرد۔ اور مؤنث کے لیے عَشْرَاءُ بَسْرًا۔

الْبِیَسَارُ: فا۔ آسان۔ بلیاں۔ جوئے کے ذبیحہ کے گوشت کو تقسیم کرنے کا شگم۔ قَسَالٌ جِ الْبِیَسَارِ: الْبِیَسْرَةُ: ہاتھ کی غیر متصل کھیریں۔ دونوں ران کے داغ جِ الْبِیَسَارِ وَبِیَسْرَاتِ الْبِیَسْرَاتِ: ہلکی ٹانگیں۔

الْبِیَسْرِيُّ جِ بِیَسْرٍ یَاتُ وَالْبِیَسْرَةُ: بلیاں۔ الْآبِیَسْرُ: ہائیں جانب والا۔ نرم ہو آسان۔ الْبِیَسْرِيُّ: کم۔ نرم آسان (یَسْرًا) وَالْبِیَسْرُ (یَسْرًا)۔

عَلَبَ: جوئے باز جِ بَسْرٍ۔ الْعِیَسْرُ: جو۔ تیروں کا جو۔ ذبح شدہ جانور جن پر جو ا کھلیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں قاعدہ تھا کہ اوٹوں کو ذبح کرتے تھے اور اٹھائیں یا دس حصے

کرتے تھے اور پھر ان پر تیروں سے قرعہ ڈالتے تھے اور تیروں میں حصے والے اور بے حصے والے دونوں ہوتے تھے جس شخص کے نام حصہ والا تیر لکھا تھا وہ انا حصہ لے لیتا تھا اور جس شخص کے نام پر بے حصہ کا تیر لکھا تھا وہ نادان بھگتا تھا۔

الْمِیَسْرَةُ: ہائیں جانب۔ ہائیں جانب کا دست فوج جِ مِیَاسِرٍ (یَسْرًا) وَالْمِیَسْرَةُ وَالْمِیَسْرَةُ: آسانی۔ تواضعی۔

الْمِیَسْرُورُ: آسان کیا ہوا۔ آسان جِ مِیَاسِرٍ الْبِیَاسِیْنِ وَالْبِیَاسِیُونِ: جھیل۔ یَسْرٌ یَسْرٌ یَسْرًا یَسْرًا الْمَاءُ: جھپہ ہونا۔

الْبِیَسْبُ وَالْبِیَسْفُ وَالْبِیَسْمُ: یشب ایک نہایت بیش قیمت پتھر۔ الْبِیَسْبُ وَالْبِیَسْفُ: یشب۔ الْآبِیَسْرُ: سوکھی گھاس جِ آبِیَسْرٍ۔

بَعْرَثٌ تَبَعْرَثٌ وَتَبَعْرَثٌ بَعْرَا الشَّاةُ أَوْ الْمَغْرَبِيُّ: بکری کا میاں۔

الْبِیَعْرُ وَالْبِیَعْرَةُ: بکری کا پتہ جس کو شیر اور بھیڑیے کے شکار کے لیے گڑھے کے پاس باندھ دیتے ہیں جِ بَعْرَا۔

الْبِیَعْرُوبُ: شد کی کمیوں کا بادشاہ۔ جِ بَعْرَا بَعْرَا۔

الْبِیَعْرُورُ: ہرن۔

الْبِیَعْرُ: ایک جانور جو کہتے سے چھوٹا اور لمبی سے بڑا ہوتا ہے اور اس کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور خاکستری رنگ کا ہوتا ہے اور اس کو عُرُوبُ بھی کہتے ہیں۔

بَفَعٌ یَفْعُ بَفْعًا وَتَوَلَّدَ لِزَكَاةٍ كِیْ بِنْدِیَا بِرَارَا۔ الْبِیَافُوحُ وَالْبِیَافُوحُ: نوموود پتہ کے سر کا وہ حصہ جو حرکت کرتا رہتا ہے جِ بِیَافُوحٍ، اور کہا جاتا ہے "صَدَعُ الْقَوْمِ الْبِیَافُوحُ الْمَلِیْلُ" جب کہ رات میں چلیں "وَمَسَّ بِبِیَافُوحِهِ السَّمَاةَ" جبکہ کھبر کرے "وَوَطِیْهُ فَلَانَ بِیَافُوحِ الْقُرُومِ" جبکہ سب لوگ سرداری کو تسلیم کر لیں۔

بَفْعٌ یَفْعُ بَفْعًا وَبَفْعٌ الْغَلَامُ: لڑکے کا بلوغ کے قریب پہنچنا۔ بَفْعٌ الْجَبَلُ: پہاڑ پر چڑھنا۔

بَفْعٌ الْغَلَامُ: لڑکے کا بلوغ کے قریب پہنچنا۔ الرَّجُلُ: ٹیلہ پر چڑھنا۔ ٹیلہ پر آگ روشن کرنا۔

الْبِیْفَعُ وَالْبِیْفَاعُ: بلند ٹیلہ۔ بلند زمین۔ جِ بَفْعٌ غَلَامٌ بَفْعٌ: بوجوان لڑکا جِ الْبِیْفَاعِ: فا۔ غَلَامٌ بَفْعٌ: بوجوان لڑکا جِ بَفْعَةٌ وَبِیْفَاعٌ مَجْدُ بَفْعٍ: بڑی بزرگی۔

الْبِیْفَعَةُ: لڑکا جو بوجوان ہو اور بلوغ کے قریب ہو۔ کہا جاتا ہے غَلَامٌ بَفْعَةٌ وَغَلَامَانِ بَفْعَةٌ وَغَلَامَانِ بَفْعَةٌ۔

الْبِیْفَاعَةُ: بافع کا مؤنث جِ الْبِیْفَاعَاتِ الْبِیْفَاعَاتِ مِنْ الْأَمْزُورِ: طاقت سے باہر کام۔ مِنْ الْجِبَالِ: بلند پہاڑ۔

الْبِیْفَاعَةُ: بلند زمین جِ مِیْفَاعٍ۔ الْبِیْفَعُ: بہت بوڑھا۔ بَرِ فَرُوتِ: بوڑھا نکل۔ صَاحِبُ فِیْنِ جِ بَفْعٍ۔

بِیْفَعٌ یَفْعُ بَفْعًا: سفید ہونا۔

الْبِیْفَعُ: روٹی۔ کجور کے اندر کا سفید گودا۔ ایک کھڑے کو بَفْعَةٌ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "بِیْفَعٌ یَفْعُ وَبِیْفَعٌ" بہت سفید بَفْعَاتِیْقُ۔

الْبِیْفَاعُوتُ: ایک بیش قیمت پتھر اور واحد بَفْعُوتُ جِ بِیْفَاعِوتِ۔

الْبِیْفَاعِطِیْنُ: بھرتے والی ہاتھ جیسے کھیرا کھڑی وغیرہ۔ عام طور پر اس کا استعمال گول کدو کے لیے ہوتا ہے واحد بَفْعِطِیْنَةُ۔

بِیْفَعٌ یَفْعُ بَفْعًا وَبِیْفَعٌ یَفْعُ بَفْعًا: بیدار ہونا۔ چوکنا ہونا۔ صفت مُرُکٌ بِیْفَعٌ وَبِیْفَعٌ وَبِیْفَعَانُ جِ الْبِیْفَاعِطِ: صفت مؤنث بَفْعِطِی جِ بَفْعِطِی۔

أَبْفَعٌ أَبْفَاعًا وَبِیْفَعٌ بِیْفَعًا: غبار شمار اُرَاتَا۔ فَلَانًا: بیدار کرنا۔ جِکَا۔

تَبْفَعٌ تَبْفَعًا وَاسْتَبْفَعُ اسْتَبْفَاعًا: بیدار ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَبْفَعُ لِلْأَمْرِ" وہ معاملہ پر متنب ہو گیا۔ اسْتَبْفَعْلَهُ: بیدار کرنا۔

الْبِیْفَعْلَةُ: بیداری۔

أَبُو الْبِیْفَعَانِ: مرغ۔

بِیْفَعٌ یَفْعُ بَفْعًا وَبِیْفَعٌ یَفْعُ بَفْعًا: واضح ہونا۔ صفت بَفْعِیْنُ (یَسْرًا) وَبِیْفَعٌ وَبِیْفَعٌ (اسْتَبْفَعٌ) الْأَمْزُورِ: جاننا۔ یقین کرنا۔

الْبِیْفَعُ وَالْبِیْفَعُ وَالْبِیْفَعُ وَالْبِیْفَعَةُ وَالْبِیْفَعَانُ: ہر سنی ہوئی چیز یقین کرنے والا مؤنث بَفْعَانَةُ۔

آخری دن۔ وَيَوْمَ الْاَيُّمِ وَيَوْمَ وُؤِومِ وَذُوْا اَيَّامٍ
وَذُوْا اَيَّامٍ هُوَ ذُوْا اَيَّامِنِمْ. سخت طویل دن۔
الْيَوْمَانِ۔ یونانی لوگ۔ ایک ملک کا نام۔
يَوْمَانِيْشِ۔ یونان کا رہنے والا جن یَوْمَانِيْشُوْنَ۔
الْيَاوِيْئِ۔ یاکی جانب منسوب۔
الْيَوْمَانِيَّةِ۔ خود۔
يَوْمَانِيَّةِ الْيَوْمَانِيَّةِ الْيَوْمَانِيَّةِ الْيَوْمَانِيَّةِ الْيَوْمَانِيَّةِ

تمہیں پانچویں

عمر سے بھی زیادہ دراز کرے اور آفتاب سے زیادہ
روشن کرے۔
يَوْمَانِيَّةِ يَوْمَانِيَّةِ يَوْمَانِيَّةِ يَوْمَانِيَّةِ يَوْمَانِيَّةِ
معاہدہ کرنا۔
الْيَوْمِ۔ دن۔ وقت۔ کہا جاتا ہے "ذَعْوَتُكَ لِهَذَا
الْيَوْمِ" تم کو میں نے اسی دن کے لیے ذخیرہ بنایا تھا
بِحِ اَيَّامٍ وَجِجِ اَيَّامِنِمْ اَيَّامِ اللّٰهِ: خدا کے دن یعنی
خدا کے انعامات یا سزا میں اَيَّامِ الْعَزَبِ: جنگ
ہائے عرب: اَبْنُ الْاَيَّامِ: زمانہ شناس۔ "اَبْنُ
الْيَوْمِ": زمانہ ساز۔ کہا جاتا ہے "يَوْمَ الْاَيُّمِ" مہینے کا

تاروں والی رات۔ مَوْتِ يَوْمَانِيَّةِ يَوْمَانِيَّةِ
الْيَوْمَانِيَّةِ اَيَّامِ كَامُوْتِ۔ بے پانی اور بے
نشان بیابان۔ سخت سال۔ مضبوط اونٹنی اَرْضِ
بِهَمَاءِ: بے نام و نشان و بے چراگاہ زمین۔
سَيُّوْنِ يَوْمَانِيَّةِ: بے گھاس و پانی اور بے درخت
والے سال۔
يَهُودِ۔ دیکھئے بارہ ہور۔
يُوحِ وَيُوحِي۔ آفتاب کے ناموں میں سے
ہے۔ کہا جاتا ہے "جَعَلَكَ اللّٰهُ اَعْمَرَ مِنْ يُوحِ
وَ اَنْتَ مِنْ يُوحِ" اللہ تعالیٰ تیری عمر نوح علیہ السلام کی

الف

ابره۔ ایتروہ دوائیہ: الجمن
 ابریل: ماواپریل
 ابریق: بک لونا
 ابزریق الشای: چائے دان
 ابن۔ تائبین: توبی ناتی
 حفلة التابین: ہائی جلسہ
 اث۔ اثاث: فرنیچر، گھریلو سامان ت
 اثاثات

اثن: فرنیچر گنا سامان سے آراستہ کرنا۔
 اثوہ۔ اثنی: آثار قدیمہ سے متعلق ماہر
 آثار قدیمہ۔

ماآتوہ: کارنامہ (ج) ماآنوہ۔
 ائیر: ایئر، ایک بے وزن لطیف مادہ۔
 الم۔ الیم۔ ائم: مجرم مجرمانہ
 اجرہ۔ اجرة: کرایہ، اجور
 اجرة النقل: محصول ٹرانسپورٹ
 اجل۔ اجل۔ آجلاً: جلد ہی ہونا۔
 آجل۔ تاجیلاً: ملتوی کرنا۔

تاجیل: التوام
 احد: اکائی (ج) آحاد
 احدیثہ: اکائی سے متعلق
 اخذہ۔ اخذاً: مسور کن، دیکھ کر جذب
 اخرہ۔ اخرہ: تاخیر آلیٹ کرنا، پیچھے کرنا
 سٹ کرنا۔

تاخو: گھڑی کا پیچھے ہونا، لیٹ ہونا، ملک و
 قوم کا پس ماندہ ہونا۔

مؤخو: پیچھے دونوں کچھ عرصہ قبل
 اھیرا: حال ہی میں، اخیر میں
 معائنات: بتایا جات حساب
 ادب۔ آداب: علوم و معارف، لٹریچر
 ماڈبہ: ضیافت، دعوت طعام (ج) ماآداب

ادی۔ آذاة (ج) آذوات: کل پرزے
 آذوات الیکتابہ: ایٹیشری
 آذوات: حلقہ سلطان، مواد لوازم، میزبل
 اذی: ہرمت، لائسنس، اجازت نامہ پاس

ماساة: شہین، السناک حادہ (ج) ماء
 مسی۔

اطر۔ اطار: فریم (ج) اطر
 الفر۔ فریز: کارنس (ج) الفاریز
 الفق۔ الفاق: چاندیہ، سیاح
 أفقی: سطح، چپا، افقی ست کا
 آفندی۔ مسٹر صاحب
 القلم۔ القلم: ملک، صوبہ، علاقہ
 اکتد تاکیڈا: تعین دلاتا، توثیق کرنا
 الی۔ الہ: مشین، اوزار، ذریعہ عمل (ج) آلات

آلة مخرجة: انجن
 آلة الخیاطة: سبھی کی مشین
 آلة التصوير: کیمرو
 آلة کاتبہ: ٹائپ رائٹر
 الاچی: رجمنٹ، فوج کی ایک جماعت
 ألف نالیفا: جماعت یا وزارت وغیرہ کی
 تشکیل کرنا۔

امب۔ امبرالیہ: امپریٹرم
 امبراطور: امپیر، شہنشاہ، ولی
 امبراطورہ: ملکہ، امپرس
 امبراطوریہ: شہنشاہیت
 امرہ۔ امارة: ریاست، ایشیٹ
 امیر: حاکم، صدر، ہیڈ، شاہزادہ
 امیر الای: کرل، ایک فوجی رجمنٹ کا
 اعلیٰ افسر

امیرال: افسر جمادات، افسر بحریہ
 امیرالواء: بریگیڈیئر جنرل
 امیری: سرکاری، ریاستی، شاہی
 استثمار: سادہ فارم
 مؤآمرة: سازش
 مامور: ماتحت، محکوم، ملازم
 ماموریہ: مسم، مشن، ڈیوٹی
 مؤآمر: کانفرس، کنونشن، مشاورتی اجتماع
 (ج) مؤآمرات:

امم۔ أمّة: قوم، عوام، پبلک
 أمم۔ نامہما: قومیت، قومی ملکیت میں لینا۔
 أممی: بین الاقوامی، انٹرنیشنل

اخذن برید: پوسٹ آرڈر

اخذن فرور: پاس

اخذن: سکل، ریلوے سکل

مأذون: سند یافتہ، اجازت یافتہ

المأذونیة: علوم عالیہ کی سند، قانون کی سند

ذگری

ارد۔ اردواز: سلیٹ۔

قلم اردواز: سلیٹ۔ پیل۔

ارمن۔ اوستقراطیة: معزز اور شریف

لوگوں کا طبقہ: ارسطقراطی

ازق۔ مأزق: نازک صورتحال، خطرناک

پوزیشن

ارض۔ ارضیة: فرش، زمین، ہر وہ جگہ جس

پر پیر رکھے جاسکیں۔

أرضیة الصورة: بیک گراؤنڈ، پس منظر

ازم۔ ازمۃ کرائس، بحران (ج) ازماات۔

ازمة اقتصادیة: مالی بحران

ازمة سیاسیة: سیاسی بحران

تازم: بحران کا شکار ہونا، معاملات کا نازک

صورت اختیار کرنا

اس۔ اساسی: بنیادی

تأسیسی: بنیادی

مجلس تاسیسی: مجلس قانون ساز

مؤسسة: سیاسی، تجارتی، علمی اور رقابی

ادارہ ج: موسسات۔

اسب۔ اسپیرین: اسپر

است۔ استودیو: اسٹوڈیو، تصویر کشی یا فلم

سازی کا مقام

اسر۔ مأسورة: نکل، پاپ

اسط۔ اسطوانة: (گراموفون کا) دیکارڈ

(ج) اسطوانات۔

اسطوار کاکالم

أسفلت: ڈامر

اسکھلة: اسٹول

استملت: سینٹ

اسی۔ آسیا: ایشیا

آسیا الصغری: ایشیا کوچک

آسیوی: ایشیائی

بَدَّال: (۱) صرف 'سکہ تبدیل کرنے والا
(۲) اشیائے خوردنی فروخت کرنے والا۔
پرچون فروش
بَدَّالَةُ التَّلِيْفُون: تیلیفون ایکسیج (ج):
بَدَّالات

تَبَادُل و مَبَادِلَة: تجارتی لین دین
بَدَلَة ثِيَاب: کپڑوں کا جوڑا، سوٹ
بَدَلَة مَهْرَة: شام کا لباس
بَدَلَة زَهْمِيَّة: سرکاری وردی
بِرْء - بَرَاءَة: لائسنس، صفائی، چھٹکارا،
خلاصی

بِرْءَانِي: بیرونی
بِرْءَهَال: پرنگال
بِرْد - بَرَاد: فتر
بِرْءَادُ الشَّي: چاء دان، پی پات
بِرْءَادَة: ریفریجریٹر، ٹھنڈا کرنے کی مشین (ج)
بِرْءَادَات

بِرْءَادِيَّة: کولر، ٹھنڈا کرنے کا بکس
بِرْءَادَة و بَرَادَة: ہندوق
بِرِيد: ڈاک (۲) پوسٹ مین
بِرِيد عَادِي: معمولی ڈاک
بِرِيد مُسْتَعْجَل: ایکسپریس ڈاک
بِرِيدِي: ڈاک سے متعلق
إِبْرَاد: ڈاک بھیجنا۔

بِرْء تَبْرِيءَا: جائز قرار دینا، سبکدوش کرنا،
تَبْرِيء کرنا۔

مُبْرَر: وجہ جواز (ج) مَبْرَرَات لَا يُبْرَرُ:
ناقابلِ عَمْر

بُرْش: پائیدان
بُرْشُوْمِي: پیراشوٹ
بُرْطَلَة: رشوت دینا۔
تَبْرَطَل: رشوت لینا۔
بُرْطَلَة: چھتری۔

بِرْع: تَبْرِع بالمال: چندہ دینا۔ تَبْرِعُ:
چندہ، عطیہ۔ (ج) تَبْرِعَات: مُتَبْرِع چندہ
دہندہ۔

بِرْقِي: بَرَقِيَّة: تاری، ٹیلی گرام
إِبْرَاق: تاریا۔

إِبْرَاد: رومی میں مطابقتی
إِبْرَالِيَا: ننگ اٹلی
إِبْرَالُول: رومی میں مطابقتی
إِبْرَالَة: صوبہ (ترکی لفظ)



بَابُ اللُّوْجِيَا: علم الطَّلَاج، علم ترکیب ادویہ
بَارِنَاصِح: بَرِنَاصِح: پروگرام، فہرست
بَارُوْمِيْتَر: میرومیٹر، آواز یا دیتا
بَارِلْمَان: پَرِلْمَان: پارلیمنٹ
بَارُوْدَة: ہندوق
بَاشْكِيْر: تولیہ (دارجہ)
بَاصَة: بس (ج) بَاصَات
بَالُوْعَة: گندانا، گندی نالی
بَالُوْن: غبارہ (ج)
بُحَاْسَة: بھاس (ج)

بَحْث: تحقیق، مطالعہ، ریسرچ (ج)
أَبْحَاث: بُحُوْت، باحث و مَبْحَاثَة: محقق
مَبْحُوْت: موضوع تحقیق و مطالعہ (ج):
مَبَاْحِث

بَحْر - بَحَارَة: جہاز رانی، کشتی رانی، ملاحی
سَمَنْدَرِي سَمَرَات
بَحْرِي و مَبْحَارَة و مَبْحَار: ملاح جہاز ران
بَحْرِيَّة: بحری طاقت، نیوی
بَحِيْرَة: جمیل
بَحْغ - بُحْبُحِيَّة: پیکاری، سرخ بُحْبُحِيَّة
زَهْمَا شَة: آپہاش

بَحْر - بُحَار: بھاپ، اسٹیم، گیس
بَاخْوَرَة: سمندری جہاز، اسٹیم (ج) بُوَاخُو
بَدْع - مَبْدَأ: قاعدہ، اصل، بنیاد (ج) مَبَادِي
مَبْدِيَّة: بنیادی، اصولی، قانونی
مَبْدِيَّةِيَا: اصولی طور پر بنیادی طور پر
بَدْع - اسْتِبْدَاد: مطلق العنان ہونا۔ خود مختار و
خود رائے ہونا۔

بَدَل - بَدَلُ الاِسْتِرَاك: رسالہ یا اخبار کا
چندہ۔

بَدَلَة ثِيَاب: سوٹ، کپڑوں کا جوڑا (ج):
بَدَّالَات

إِمْن - اَمْنٌ عَلَي الْحَيَاة: زندگی کا بیمہ کرنا۔
تَأْمِيْن: بیمہ، ضمانت (ج): تَأْمِيْنَات
تَأْمِيْن عَلَي الْحَيَاة: لائف انشورنس
أَمَالَة: نظامت، مستندی
إِمِيْن: ناظم، سیکرٹری، لائبریرین، خزانچی، ج
امناء:

إِمِيْر كَا: امریکا
تَأْمُر ك: امریکی باشندگی اختیار کرنا
إِنْب - اُنْبَاشِي: کارپورل، وس فوجی
سَپَايِرُون كَا فِئْر
أَنْبُوْبَة: پائپ (ج): اُنْبَابِيْب
إِنْت - اُنْبُوْثِي: زنانہ، نسوانی
أَنْوُوثَة: نسوانیت، زنانہ پن
إِنْج - اِنْجَلِيْز: انگریز
إِنْس - اِنْسَة: مس، لوجوان خاتون (ج):
انسانات

إِنْف - اِسْتِنْفَاغ: مقدمہ کی اپیل
مَسْتَأْيِف: اپیل کنندہ
إِنْم - اُنْمُوْدَج: نمونہ، طرز، ماڈل
(ج): نَمَافِج

إِنِي - اِنَاة: صبر، انتظار
أَهْل - أَهْلِيَّة: خانگی، نکلی، شہری
مُؤَهَّلَات: علمی لیاقت، صلاحیت
کُوَالِيْفِيْكِيشَن

أَهَالِي: باشندگان عوام
اوت - اُوْتَمَبِيْل: موٹر کار
اور - اُرْدَطَة: بنائین، ایک ہزار سپاہیوں
کی جماعت

اور نیک: سادہ فارم
اوراق: کاغذات، پرچے
اوراق التعمین: کاغذات نامزدگی
اوربنا: یورپ
اورڈی: یورپین یورپ کا
اوق - اوقیة: اونس، مساوی ۱۳/۱۰ پونڈ۔
اوضه: کمرہ (ج) اوضات

اومباشی: دفتر دار، فوج کا ایک چھوٹا
مددہ دار جس کے تحت دس سپاہی ہوتے ہیں۔
ایوان: ہل، لابی، پبلک ہل، گل

بولیصہ: رسید ہنڈی
بویہ: پالش
بیادہ: پیدل فوج
بیت تجاری: کمرشل ہاؤس، تجارتی گھر
بیض: بیضاً: قلعی کرنا، چونا پھیرنا، کپڑا
دھونا۔

مہیض: قلعی کرنا، دھونا
پیکار: پرکار
پیکۃ النور الکھزیمانی: بلب، تفرہ
بیان: تفصیل، رپورٹ، وضاحت
پرگرام: لائحہ عمل
بیان زمین: سرکاری اعلان



ت

تبع: تبعاً: مسلسل، لگاتار
تابع: ماتحت، لاحق، خادم، طفلی، مصاحب
تبعہ: ذمہ داری، نتیجہ، انجام
تبع: پیچھے کا تہاگو
تبل: تھیلا، مصالحہ ملانا، لگانا
تبال: مصالحہ فروش
تبن: تبن، نیکر، ٹگوت، جاکیہ
تجر: تاجر، الجملہ: تھوک، فروش، تاجر
المفروق والقطاعی: پرچون، فروش، خرہ
فروش

تحف: منحرف: عجیب، خالص، میوزیم
(ج): محتاج
توام: ٹرام کار
توسانہ: میگزین، اسلحہ خانہ
تورعہ: نمبر۔ (ج) تورع
تورعہ الاہراد: آب پاشی کی نھر
تورعہ التصریف: پانی نکالنے کی نھر
تشرین الاول: ماہ اکتوبر
تشرین الثانی: ماہ نومبر
تعاب: آفات، محتاج، فیس
تکھکۃ: ایک تک کرنا، کھٹ کھٹ کرنا
تلغراف: ٹیلی گراف، ٹیلی گرام
تلغفہ: کاروبار
تلغفہ: ٹیلی ویژن

بلع: بلعۃ، بالوعۃ: نالی، موری
گندہ آنچک
بلع: بلاغ، خبر، اطلاع، اعلان، پیغام، فرمان
نوش: (ج) بلاغات
بلاغ: آغیر: الٹی میٹم
متبلغ: مقدار، رقم
بلکون: بالکنی
بلوک: امین، گواہ، سٹرا (نوبی عمدہ)
بلیون: ایک ارب (۲) دس لاکھ
بمباشی: لیٹیننٹ کرنل
بنج: تہنیکاً، سن کرنا، بے حس کرنا۔
بند: قانون کی دفعہ، فقہ (ج): بنود۔

بندۃ: کارٹوس
بندۃ: بندوق، گھن
بندولم: گھڑی کا پنڈولم
بنزین: پٹرول
بنک: بینک، (ج) بنوک
بن: کافی، توتہ
بنی الملون: کافی لکر، براؤن رنگ
بسی: مینٹی، عمارت، بلڈنگ
بناء: معمار، تعمیر، (عمل بناء) تعمیر اور
ترقیاتی کام

بہو: ہال، بڑا کمرہ (ج) آبھاء
بوء: بیٹہ، جاول، محل وقوع (ج) بیئات
بواب: بوابہ، بھانگ، بڑا دروازہ
بوح: اباحت، رخصت، وجہ جواز
إباحیۃ: بالشوایم، کیونز کم کی وہ قسم جس کے
اصول انتہا پسندی پر مبنی ہوں۔

بورصہ: (ج) تجارتی منڈی
الاوراق المالیۃ: تبادلہ زر کی تجارت
زر مبادلہ
بوص: سلک، ریشمی کپڑا
بوصہ: (ج) بھوسات
بوصلہ: قطب نما
بوغاز: ننگ، تائے، دو سمندروں کے
درمیان کی ننگ نالی
بوق: بھل، ہارن (ج): ابواق
بول: ببولۃ، پیشاب دان

پرکار: پرکار
پریمان: پارلیمنٹ
پرنامج: پروگرام، فہرست
پرنیطہ: بیٹ
پرواز: چوکن، فریم
بری: پڑایمہ: قلم تراش
مباراۃ: میچ، ٹورنامنٹ، مقابلہ
مباراۃ الاطفال: دودھ کی شیشی
بسط: بساطہ: ساگی، صاف ولی
بسیط: معمولی، سادہ، سہل
بشور: باشور العمل: کام پر لگانا، خود
انجام دینا۔

فباشرة: براہ راست، بلا واسطہ طور پر
ڈائریکٹ
مہیشور: مذہبی واعظ، مشنری
بصر: مبصر: ٹیلی ویژن سیٹ آلہ
عائب بینی
بطل: ہیرو، شہسوار (ج) ابطل۔ بطلانہ
پکاری: بے روزگاری
بعث: پیغام، نمائندہ (ج) بعوث۔ بعثۃ:
مشن، ڈپلومی کیشن، نمائندہ وفد (ج) بعثات۔
مبعوث: نمائندہ، پیغامبر، قاصد
بعد: انعداد: علیحدہ کرنا، معزول کرنا
جلاوطن کرنا۔

بعث: فباغت: ناگمانی، غیر متوقع
بقی: مستبقی: محفوظ، ریزرو
بکباشی: (ت) لیٹیننٹ کولونیل فوجی
عمدہ دار


یکلو ریوس: (ج) گرینجویٹ
" " " فنون: بی اے
بلاتین: پلاٹینم، ایک قسم کی دھات جو
سونے سے قیمتی اور بھاری ہوتی ہے۔
بلجیکا: بلجیم
بلدیہ: میونسپلٹی
بلشقی: انتہا پسند اشتراکی (ج) بلاشقیۃ
بلشقیۃ: بالشوایم
بلط: بلاط، ٹائل، فرش کا پتھر بلاطہ
بلاط الملک: دربار شاہی

تلو۔ التالی: اگلا، متصل
بالتالی: لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ
تذکۃ: کنٹر، ٹین۔
تولیا: جست
- زرقاء: نیلا تھوٹھا
تولستو: ٹالساٹی
تیار: کرنت، ہوا کا جھونکا، ہوا، دھارا
حالات کارخ: رو (ج) تیارات۔
نیفود: ناغیڈ۔



ٹاری: اتقائی
ثبت: حجت، دلیل، ثبوت
ثابت: غیر منقول، غیر متحرک، ظاہر، تسلیم
شدہ، مستقل مزاج، مستقل
اثبات و تثبیت: عارضی ملازم کو مستقل
کرنے پر قرار رکھنا۔
لقب: نقاب، نقوب، ویاسائی
تلقف: ثقافت، کلچر، تعلیم، تہذیب
تلقافی: کلچر، تعلیمی، تہذیبی
تثقیف: ذہنی تربیت دینا، مذہب بنانا، تعلیم
یافتہ بنانا۔
مُتَثَقِّف: تعلیم یافتہ مذہب
ثقل نوعی: (سائنس میں) کثافت نوعی
ثککۃ: فوجی بارک، پولیس کا مرکز (ج)
ثککات
ثلث: ثلاثی، سہ رکنی، سہ نظری، سہ
اجزائی، سہ حرفی
ثلج: تلجی، برفانی، برف سا
ثلاثۃ: آکس، یکس، برف رکھنے کا صندوق
(ج) ثلاثیات۔
مُتَلَبَّجۃ: ریفریجریٹر، ٹھنڈا کرنے کی مشین
ثمر: ثمر مالہ تسمیوا: مال میں اضافہ کرنا
کاروبار میں لگانا۔
ثنی: ثنائی، ڈبل، دوہرا، دور رکنی
ثانوی: دوسرے درجہ کا سینکڑی
استثنائی: خصوصی، ہنگامی
ثورۃ: جوش، بغاوت، انقلاب

ٹوری: انقلابی، شورش پسند
ٹایر: ہاشی، انقلابی، فوجی



جاویش: سارخٹ، ایک فوجی عمدہ
جنس: پلاسٹر کا مصالحہ، کھریا
جنس الغصو: حصہ پر پلاسٹر چھانا
جنہۃ: مجاز جنگ وغیرہ (ج): جنہات
جسی: جسی الاموال والضرائب۔
جیبایہ: وصول کرنا (یکس وغیرہ)
جباب: ج: جباۃ: مفحصیل۔ وصول کنندہ
جدول: چھوٹی سر، گول نرسٹ، چارٹ
نقشہ، کالم (ج): جداول
جدول الاعمال: ایجنڈا
الضرب: پھاڑا
جدعی: بنیادی
جرام: گرام (ج)
جوزخار: راکٹ
جواح: سرجن، سرجری کا طبیب
جواحیۃ: سرجری
جواحیۃ: سرجری آپریشن
جریدۃ: اخبار، نیوز پیپر (ج): جرائد
تجریدۃ: فوجی دستہ، فوجی حملہ
مجزود الاسفار: داخول کا برش
جوز: جزاۃ: آگ، جراثیم (ج): جزارات
بحری: اجراء قانونی: ضابطہ کی کارروائی
اجراء قضائی: عدالتی کارروائی
اجراء ات: کارروائی
مجزی: دوڑ، رفتار، دھارا، گزر گاہ، رخ
جزء: پرزہ (ج) اجزاء:
اجزائی: کیسٹ، دو فروش
أجزائیۃ: فارمی، دو خانہ
جزرة: پیسے کی ٹینو
جزمة: بوت، جوتا (ا)
جزماتی: جوتا بنانے والے یا مرمت
کرنے والا
جزاء نقدی: جرمانہ
جزائی: تعزیری، قابل سزا

جمل: مزدوری، فتح، عمت، کمیشن
جفر: نخبہ رسم الخط
جلب و اسجلاب: باہر سے مال منگانا
جلبۃ: واشر، دو ٹکلیوں کو جوڑنے والا جھلا
جلب و جالب: امپورٹر، بیرونی ممالک
سے مالک منگوانے والا۔
جلبۃ: لشت، میننگ
قضائۃ: سیشن، عدالتی اجلاس
مجلس: نشست، گاہ، میٹ ٹیبل، پتھر
مجلس الادارۃ: مجلس انتظامیہ
الاعیان: دار الامراء
الثواب: پارلیمنٹ
مجلس المدیرۃ: ڈسٹرک بورڈ
مجلس القلمی: صوبائی کونسل
بلدی: میونسپل کمیٹی
تشریحی: مجلس مقننہ
عسکری: فوجی عدالت
یہی: پارلیمنٹ
جلل: جلالت و صاحب جلالت، بادشاہ کا
اعزازی لقب، پرنسپل
مجلۃ: رسالہ، میگزین (ج) مجلات
جلو: جلالت، اعزاز، انکشاف
جلالیہ: پرکسی جماعت (ج) جالیات
جھوٹ: جھگی خانہ (ج) جھارک کسم
پلاس
جمنج الحروف: کمپوز کرنا
جمعیۃ: سوسائٹی، انجمن، ایسوسی ایشن
جمنعیۃ خیریۃ: فلاحی انجمن، ویلفیئر
سوسائٹی
جمعیۃ عمومیۃ: جنرل اسمبلی
جماعی: اجتماعی، جماعتی، مشترکہ
جماعۃ الکھرباء: خزانہ بجلی
جامع الحروف: کمپوزٹر
جامعۃ: یونیورسٹی، لیگ
اجتماعی: معاشرتی، سوشل، عمرانی
مختص: سوسائٹی، معاشرہ، سلج (ج):
مختصات
مختص: کونشن، اجتماع علمی

<p>خَوَّاب: سنگین بردار، نیزہ بردار مُحَارِب: جنگجو، لڑاکا سپاہی حِرْت: مِحْرَات، بخاری، نرگش خِرَاج: خیل خَوْرَة: تحریروں: آزاد کرنا، ایسٹ کرنا تَحْرِیْر: آزادی سے متعلق، ادارت مُحَوَّر: آؤیٹر، مصنف، راکٹر خَوْرَس: خَوْرَس، گارڈ، حفاظتی دستہ خَوْرَس: شخصیت، بلائی گارڈ خِرَاسَة: پہرہ، عدالتی پہرہ، ضبطی خِرَاش: تحریروں، فساد انگیزی کرنا خِرَاض: تحریروں، اشتعال انگیز خَوْرَف: مطبعتی او حدیدی، ٹائپ حِرْفَة: حرف بہ حرف حِرْق: حریق، آتش زدگی (ج) حِرَاق خَوْرَكَة: تحریک (ج) حِرَکَات خَوْرَكَة المُرُور: نرگش، آمد و رفت مُخَوْرَك: موٹر یا مشین جس کے ذریعہ آلات حرکت کرتے ہیں۔ خَوْرَمَة: تقدیس، عدم جواز، عورت خَوْرَمَة الرجیل: بیوی خَوْرَب: پارٹی، گروہ (ج) اِحْزَاب شِیوعی: کمیونسٹ پارٹی اِشْتِرَاقی: سوشلسٹ پارٹی مُعَارَض: حزب مخالف خَوْرَبَة: پارٹی بندی، گروہ بندی مُتَحَوِّر: گروہ بندی، پارٹی باز خَوْرَبَان: ناہجون خَوْرَب: خرقہ، دباؤ ڈالنا۔ خَوْرَم... خَوْرَم: بانہ حنا، بڈل بنانا، یہ کرنا احتیاط برتنا خَوْرَم: محتاط، دور اندیش خَوْرَبَانی: ماتمی، سوگی حَسَب: حاسب، محاسب مُحَاسِب: آؤیٹر، حساب کی جانچ کرنے والا۔ مُحَاسَبَة: اکاؤنٹنگ، حساب کا کام</p>	<p>(ج) جَوَازَات: جَاوَز: (مع) گیس (ج) جَوَازَات جَوَازَة: انعام (ج) جَوَازَات جَوَل: جَوَازَات: سیاح، گشت کنندہ، پھیری لگانے والا۔ جَوَلَة: گشت، پھیری، دورہ جَوَالَة: موٹر سائیکل مِجَال: میدان کار، گنجائش، موقع (ج): مِجَالَات جَوَل: فضا، ماحول، آب و ہوا جَوَل: فضائی، ہوائی، خلائی أَجْوَال: ماہر موسیقار جِیولوجیا: علم طبقات الارض  خَبَس احتیاطی: حَوَالَات مُخَبَس: نوٹی (ج) مَحَابِس خَبَكَة الروایة: ناول کا پلاٹ، خاکہ حِجَب: حجاب، پردہ، پارٹیشن حِجْر: حِجْر: ریزرو کرنا، محفوظ کرنا حِجْر: رکاوٹ، پارٹیشن، دیوار (ج): حَوَاجِز حَدَث: واقعہ، بدعت، نو عمر حَدِيث: بات، کلام، گفتگو، کہانی، روایت حَدِيث: خبر، مضمون حَدَّد: تحدیداً: حد بندی کرنا، کنٹرول کرنا، محصور کرنا تحدید النسل: ضبط ولادت حَدَق: حَدِيقَة عُمومیة: باغ عام پبلک گَارُون حَدَل: حدلاً: ہموار کرنا، رول پھیرنا مُحَدَلَة: رول، وہ گول پتھر جس کے ذریعہ زمین ہموار کی جائے۔ مُحَدَلَة بخاریة: اسٹیم رول، سڑک کوٹنے کا انجن خَدَر: محتاط، چونکا مُحَدَل: قابل احتیاط خَوْرَبَة: محکمہ جنگ</p>	<p>مُخْتَمَع عَلیمی: اکیڈمی، لٹریچر ادارہ مُخْتَمَع: دوائی جلسہ جَمَل: بِالْجَمَلَة: تھوک، ہول سیل، غلام یہ کہ فَاجِر الجَمَلَة: تھوک فروش جَنَح: جَنَاح: عمارت کا حصہ جَنَد تجنیداً: فوج میں بھرتی کرنا تَجَنید اجباری: لازمی بھرتی جَنَسَة تجنیسا: حقوق قومیت عطا کرنا کسی ملک کی لیشٹی رینا، ملکی بنانا جَنَسَة: قومیت، لیشٹی، ملکی حقوق تَجَانَس: ہم قوم ہونا جَن: جَنَسَة الحیوان: چڑیا گھر جَنَس: جَنَسَة: اشرفی، گئی، برابر تقریباً بچپن روپے یا گیارہ شلنگ، انگریزی پاؤنڈ میں شلنگ جَوهری: بنیادی، اصلی، ضروری زُیورات بیچنے والا۔ مُجَوهرات: زُیورات جَہْر: مِجْہَر و مِجْہَر: بمونڈ، مانگرو فون، لاؤڈ اسپیکر مُجْہَر: مانگرو سکوپ، خوردبین جَہْر: تَہْجِز: تیار کرنا، سامان یا زاد راہ سے لیس کرنا۔ جَہْر: نظام، سسٹم، نظام ترکیبی (ج): أَجْہَرَة جَہْر: تیار، آراستہ، لیس جَوَّاب: سیاح مِجْہَر: سوراخ کرنے کا آلہ جَہْر: ہٹ سن، سنی جس کی بوریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ جَوْر: جَوَاز الامتحان: جَوَاز: امتحان پاس کرنا۔ أَجْہَرَة: سند، رخصت رینا إِجْہَرَة: سند، رخصت مُجْہَر: سند یافتہ، فاضل جَوَاز و إِجْہَرَة: پرمٹ، لائسنس جَوَاز السفر: پاسپورٹ، پروانہ راہداری</p>
--	---	--

حساب جاری: کرنت اکاؤنٹ
حتم: حسناً: کاٹا، چکانا، الگ کرنا، ختم
کرنا

حاسم: قطعی، فیصلہ کن، نازک
حسن: تحسینات: اصلاحات
حشو: حساء: سوپ، شوربا
حشد: حشدًا: فوج جمع کرنا
حشو: حشیة: گدا (ج) حشایا
حشاً: بھرتا، ہتھیاریں بارود وغیرہ بھرتا۔
حصد: مخصدة: کھینک کاسے کی شین
حضر الکلیمة او العیارة: حصراً:
پرکھ لگانا۔

حصيرة: بچ، چٹائی (ج) حصائر
حصافة: اصابت رائے
حصل: حصالة: روپے جمع کرنے کا بس،
سیولگ بس

حصيلة: پیداوار، نتیجہ، حاصل مجموعہ،
آمدنی (ج): حصائل
محصول: پیداوار (ج) محاصيل
حضر: آحصانة: قلعہ بند ہونا۔

تحصينات: قلعہ بندیاں
مُحَضَّرٌ: قلعہ بند، مضبوط، محفوظ
حصی: حصاة بولیة: پتھری جو پیشاب کی
راہ سے نکلتی ہے۔

إحصاء النفوس: مردم شماری
احصائية: انداد و شمار
حضر: حضور: حاضری، شرکت،
موجودگی، پیشی

حَضَارَةٌ: تہذیب، تمدن، شہرت
حَضْرِيٌّ: شہری، تمدنی
حَاضِرَةٌ: پایہ تخت (ج) حواضر
مَحْضَرٌ: روٹا، کارروائی (ج):

مَحَاضِرٌ
إحصار: پیش کرنا، عدالت کی پیشی
إحصارية: سمن عدالت
استحضار: طلب کرنا
مستحضرات: تیار کردہ سامان
تحضر: تمدن، تیار

تحضير: شہری بنانا، تیار کرنا
حاضرہ: بیکچر دینا
مُحَاضِرَةٌ: کلمہ، علمی تقریر (ج):

مُحَاضِرَاتٌ
مُحَاضِرٌ: بیکچر
حضر: حضانة: پرورش، زنگ، دایہ
گری

حاضنة: دایہ، نرس (ج): حواضن:
حظ: مَحْظَةٌ: ایشین (ج): محفظات:
حظر: ممانعت، رکاوٹ
حَظْرُ التَّجْوُلِ: کرفو

حفظ: حافظ (ج) حواظ: محرک، باعث
حفظ: محافظ: کلنر، نگران
مُحَاظِفُ الْقَطَارِ: گارڈ (ریلوے)
مَحْفَظَةٌ: کبس، غلاف، بستہ

محفوظات: ریکارڈ، پرانے کاغذات
حَفٌّ: مَحْفَةٌ: اسٹریچر، پاکی
حَفْلٌ: بزم، جمع، جلسہ، تقریب
حفلة: جلسہ، پارٹی (ج) حفلات:

حفلة الشاي: ٹی پارٹی
حفو: حفاوة: خیر مقدم، اعزاز و اکرام
حقب: حَقِيبة: بیگ، سوٹ کیس (ج):
حَقَابٌ

حقق: تحقیق: ثابت کرنا، برلانا، جانچ پڑتال
کرنا، چھان بین کرنا
استحقاق: صلاحیت، اہلیت
مُحَقِّقٌ: افسر تحقیقات
حَقْنَةٌ: پیکاری، انجکشن

وَمَحْفَنَةٌ: سرخ، پیکاری
حَكَاكٌ: کھرا، چاک
حَكَاكُ الْاِحْجَارِ الْكَرِيْمَةِ: گھینڈ ساڑ
جو اہرات کو تراشنے والا۔

مَحْكٌ: کسوٹی (ج) مَحْكَاتٌ
حُكْمٌ: حکومت، فرمانروائی، اقتدار، عدالتی
فیصلہ، فیصلہ

حُكْمٌ عُرْفِيٌّ: مارشل لاء
حُكْمُ الْاِرْهَابِ: درہشت پسندانہ حکومت
حکمدار: حاکم شرع، کوتوال

حکمداریة: کوتوالی
مَحْكَمَةٌ: عدالت، پکھری
مَحْكَمَةٌ جَزَائِيَّةٌ: عدالت خفیہ

الجزاء: عدالت دیوانی
الجنايات: عدالت فوجداری
مدنیة: سول کورٹ
عسکریة: فوجداری عدالت

الاستیناف: ہائی کورٹ
مَحَاكِمَةٌ: مقدمہ، سماعت مقدمہ
حکمی: حاکمی، گراموفون، فونوگراف
حلب: جلالہ و مَحْلَبٌ: دودھ کا

کارخانہ، ملک ڈیری
حلب اللوز: شیرہ بادام
حلج: مَحْلَجَةٌ: پانی کا کارخانہ
حَلْوُونَةٌ: بیج دار کیل
حَلْوُونِيٌّ: بیج دار

جَلْفٌ: پکت، معاہدہ، تہذیب، ریش
عَسْكَرِيٌّ: فوجی معاہدہ، گٹھ جوڑ (ج):
أَخْلَافٌ

حلق: مَحْلَقَةٌ: سیٹھی ریزرو، بال کاسے کی
شین
خَلٌّ: پارٹی ختم کرنا، وزارت توڑنا
احتیال: قبضہ، جمانا، قابض ہونا

ارض محظلة: متبوضہ علاقہ
خَلَّةٌ: ڈسکن داروینچی
إِنْحِلَالٌ: ڈھیلا پن، سستی، کمزوری
خَلْوِيَّاتٌ: مضامین

خَمْرَةٌ: سرخی، ہونٹوں کو لگانے کی سرخی
خَمْرٌ: چرچر اپن
حَمْسَةٌ: جوش دلانا، مشتعل کرنا
حَمَائِيٌّ: پر جوش، مشتعل مزاج

حَمَصٌ: تحمبصا، سینکنا، بھوننا، ٹوسٹ یا
روٹی وغیرہ سینکنا
حمل: جمالہ و حَمَالَةٌ: پل کے ستون
مَحْمُولٌ: ڈولی (ج): مَحَامِلٌ

مَحْمُولٌ: گاڑی کالوڈ، وزن
حَامِلٌ: ایشینڈ (ج) حوامل
حمی: مَحَامِيٌّ: وکیل، میر سٹر

حمامہ محاماة: وکالت کرنا، مدافعت کرنا
 مَحَبَبَات: محروسہ علاقے
 حِمَايَة: حفاظت، حراست، نگرانی
 حِمَايَة ذُو لِيَّة: بین الاقوامی نگرانی
 حَامِيَة: حفاظتی دست (ج) حوامی
 حَنْفِيَّة: نیشنو
 حَنَك: مُخْتَلِك: تجربہ کار، ہوشیار
 حَوَج: حاجیات، ضروریات، لوازم
 حَوْرِيَّة: بری (ج) حوریات
 مِخْوَر: بیلن، لوہے کی لاث جس پر دونوں
 پے گھومتے ہیں۔
 حَبْرَة: دارۃ امکان
 انحصار الیہ: کسی کی طرف جھکتا، طرف دار
 ہوتا۔

حِیَاة: قبضہ، ملکیت
 تَحْيِيْر: طرفداری، جانبداری
 مَتَحْيِيْر: طرفدار، جانب دار
 حَوْضُ الارْضِ: کھاریاں بنانا۔
 حَوْضُ الشَّفْنِ: گودی جس میں جہاز
 لگنے ہوتے ہیں۔

حَوْط: احتیاطی طور پر، محفوظ
 مُحِيط: دائرہ، سمندر، ماحول (ج):
 مُحِيطَات

مَتَحَوِّط: مصلحت اندیش، محتاط
 حَوَّلَ تَحْوِيْلًا: حالت بدلنا، نقل کرنا
 ریل گاڑی کی لائن بدلنا۔

أَحَالَ... أَلَى: مرسل کرنا، محول کرنا
 أَحَالَ عَلَى المَعَاشِ: پیش روینا
 حَالَاتِي: ابن الوقت

حَوَالَة: تحویل، آرڈر، حکم
 مَالِيَّة: چیک، ڈرافٹ، منی آرڈر
 حَوَالِي: تقریباً برابر

تَحْوِيْلُ النُّقُوْدِ: تبادلہ سکہ
 تَحْوِيْلَة: ریلوے کٹنا
 مَحَالَة: بڑا بیلن

مُخَوَّل: منی آرڈر بھیجنے والا، ڈرافٹ یا
 چیک کے ذریعہ رقم بھیجنے والا۔
 مَخْوَلَة: ریلوے قبضی جس کے ذریعہ ریل

گاڑی ایک پٹری سے دوسری پٹری پر جاتی
 ہے۔

مِخْوَلِيْجِي: مِخْوَل: سوچ، مین، ریل کی
 قبضی بدلنے والا۔

مِخْوَل عَلَيْهِ: رقم پانے والا جس کے پاس
 منی آرڈر بھیجا جائے۔


مِخْوَل لَهُ: جس کے نام چیک یا ڈرافٹ کیا گیا
 ہو۔

حَوِي: حَوَاي: مداری، سپیرا، شعبہ باز
 (ج) حَوَاة

محتویات: مندرجات
 حید: حیا، مَحَابَدَة: غیر جانبداری

مُحَابَد: غیر جانبدار، گناہ کش
 حَيَوِي: حیاتی، زندگی کا، زندگی کے لئے

ناگزیر۔
 حَيَوِيَّة: قوت حیات



خَبَا: مَخْبِيَا: پناہ گاہ
 خَبْر: مَخَابِرَة: خبر رسانی

اِخْتِيَار: اِخْتِمَان: ٹیسٹ، تجربہ
 اِسْتِخْبَار: تحقیق کرنا
 خَبْرَة: واقفیت، مہارت

خَبِير: صاحب بصیرت، تجربہ کار، ماہر فن
 ج: خُبْرَاء۔
 مُخْتَبِر: تجربہ گاہ، لیبارٹری (ج):

مختبرات
 خَبْرَة: مَخْتَبِر: روٹی کی دوکان، بیکری، بسکٹوں
 کا ٹور۔

خَتَم: مہر، مہر کا نشان، مہر کا آلہ
 خَتَامَة: اسٹامپ، مہر کی سیاہی کی ڈبہ
 خَلْد: مِخْدَة: نگینہ، گمگد

خُدْرَة: تخدیر، سُن کرنا، بے ہوش کرنا
 خُدْر: خُدْرَة: بے ہوشی
 مُخْدِر: بے ہوش یا سُن کرنے والا

خَدَم: استخدام، خدمت لینا، ملازم رکھنا،
 کام لینا، استعمال کرنا۔
 مُسْتَخْدَم: ملازم، نوکر، کارکن

خَادِمِيَّة: ملازمت، نوکری
 خَدِيْو: خَدِيْوِي: (ترکی) واٹس رائے مصر
 کے سابقہ فرمانرواؤں کا لقب جو سلطان ترکی
 کے تابع ہوتے تھے۔

خَرَج: خَرُوج: مَتَخَرَج: کسی تعلیمی ادارہ
 کا فارغ التحصیل، گریجویٹ

تَخْرُج: سُد فَرَاغ: حاصل کرنا
 خَارِجِي: بیرونی، غیر ملکی

مُخْرَج: قلم و عمرہ تیار کرنے والا
 خَرَز: مِخْوَز: ستاری

خَرَط و خِرَاطَة: خَرَاد: کام یا پیشہ
 خِرَاطُ العُشْب: خَرَاد: کام کرنے والا۔

مِخْرَطَة: خَرَاد کی مشین
 خَوْبَطَة: جغرافیائی نقشہ، نقشہ (ج):

خَرَاطَط
 خَرَع: مَخْتَرَع: ایجاد (ج): مَخْتَرَعَات
 خَرَم: خَرَامَة: سوراخ کرنے کا اوزار

تَخْرِيمَة: مختصر راستہ
 خَزَل الكَلَام: خَزَلَا و اِخْتَزَل: مختصر کرنا،

اشاروں میں کلام کرنا
 اِخْتَزَل: شارٹ نوٹس، اسٹیو گرائی

خَزَن: خَزَانَة: الماری، تجوری
 خَزِيْنَة: خزانہ، بیت المال
 خَزَان: تالاب، ڈیم، حوض، تنگی (ج)

خَزَانَات
 خَازِن: خَزَائِي، منتظم، گودام
 مَخْوَن: دوکان، اسٹور، گودام (ج):

مخازن
 خَشِيْب: خَشِيْب: بغیر پالش کیا ہوا۔
 خَشِيْن: اَكْثَر سَارَة: بد اخلاق

خَصَص: خَصْصَة: تعلق، نسبت
 تَخْصِيْص: منفرد ہونا، امتیاز و مہارت
 حَاصِل کرنا، کسی علمی شعبہ کا ماہر ہونا۔

مَتَخْصِص: فاضل، ماہر
 اِخْتِصَاص: دائرہ اختیار (ج):

اِخْتِصَاصَات
 اِخْتِصَاصِي: اسپیشلسٹ، ماہر
 مَخْصُوص: اسپیشل، پرائیویٹ

تدرّب علی: مشق کرنا، تربیت پانا
ذُرْبَة: تجربہ، مشق، عادت
درج-مَدْرَج: ہوائی اڈے کی سڑک، رن
وے
ذُرْج: میز کی دراز (ج) اُدْرَاج
درجہ: گریڈ
دوس-دراسة: تعلیم، مطالعہ، غور و خوض
معاینہ۔

مدرسة فکری: کتب فکر
مدرسیٹی: درسی، اسکول کا
درج-مَدْرَج: زرہ پوش
مَدْرَعَات: بکتر بند گاڑیاں
دعو-دعاية: پروپیگنڈا
دعوة و دعوی: مقدمہ، کیس
دفع-دَفَايَة: مدد فاء: اسٹوڈنٹس
دفتر: کابلی، نوٹ بک (ج) دفاتر
دفتر خانا: محافظ خانہ

دفع: ادائیگی

دفعه ماليّة: قسط

دافع: محرک سبب، دوافع

مدفع: توپ (ج) مدفعا

مدفوع الیہ: وصول کنندہ

مدفعیّة: توپ خانہ

دَقَّة: ہاریکی، مہارت، نزاکت، پختگی

ہوشیاری

دکتاتور: ڈکٹیٹر

دکتور: ڈاکٹر، اعلیٰ علمی ڈگری والا

دکتور فی الحقوق: ڈاکٹر آف لاء

دَوْلَاب: مشین، آلہ، پیسہ

دلیل-دلیل: راہ نما، گائیڈ

دَلِيلُ الْبَلَد: ڈائریکٹری

دَلِيلُ الْاَسْفُن: پائلٹ، جہاز ران

دمر-مدقورة: بجلی جہاز

دُهْن: تیل، وارنش، روغن

دِهَان: وارنش، روغن

دِهَان: رنگ ساز، روغن گر

دور-دَوَان: (ج) ادوار گھر

دَاوِ الْاَلَار: میوزیم

خَلْوِي: دیرسائی
إخلاء: اخراج، جلا وطنی
خُمَاسِي: خُمَاس: پانچ رکنی، پانچ اجزائی
خَمُول: سستی، گنہاری
خَوَل: تحویل، حق سپرد کرنا، سپرد کرنا
خان: سرانے، ہوٹل (ج) خانات
خَيْطُ الْقَنْب: بتلی
خَيْش: کینوئس، ایک ویچر کپڑا
خَيْلِ الْيَه كذا: اسے ایسا خیال ہوا۔ اُس نے
ایسا سمجھا۔

مُخَيَّل: حیران کن، توہم نيز

مُخَيَّلَة: قوت تخیلیہ، دماغ

خِيم: مُخَيَّم (ج): مخیمات: خیمہ گاہ،

کیپ، پناہ گزین کیپ

خَام: خام، ناچھتہ، سادہ

خَامَات: ابتدائی میزبل، خام اشیاء



داهل: گھڑی کا ڈائل

دَبَابَة: ٹیک (ج) دَبَابَات

دبج-دبباجة: سرنامہ، القاب، خط کا یا

کتاب کا تمثیری مضمون

دَبْرُ خَطَّة: اسکیم بنانا۔

دَبْوْرَة: اشار، فوجیوں کی وردی کا ستارہ، پتھر

توڑنے کا آلہ۔

دبس-دَبْوَس: پن، سیٹھی پن، پالوں کا کلپ

(ج) دَبَابِيس

دبغ-مَدْبَغَة: چمڑا صاف کرنے کا کارخانہ

دَخَل: آمدنی

دَخِيل: بدسی، غیر ملکی (ج) دَخَلَاء

دَاخِلِيَّة: اندرونی معاملات کا محکمہ

مدخول: آمدنی، پیداوار

دَخَن: تمباکو، بھاپ، دھواں

دَخَانِي: تمباکو کو لازم فروخت کرنے والا

دَخَن تَدَخِينَا: تمباکو پینا، حقہ یا سگریٹ پینا۔

دَاخِنَة: مدد خنہ: دھواں نکلنے کی چنی

دَرْبَه عَلِي... تدریسا: مشق کرنا۔

تُرْبُك دِنَا: تربیت دینا

خَصْمَه-خَصْمَا: کسی کے مقابلہ پر قیمت
میں کی کر دینا۔

خَصَع لَه-ک: ماتحت و دست نگر ہونا

خَاصِيص: ماتحت، دست نگر

خَطَر-خَاطِر: ...مخاطرة: بازی لگانا،

خطرہ مول لینا۔

خَاطِر: شرط، نا بازی لگانا۔

إخطار: تشبیہ، ٹوٹ

خَطَطُ الْارِض: حد بندی کرنا، چک بندی

کرنا، کھیت میں کیاریاں بنانا۔

خَطَط: آواخت، منصوبہ و اسکیم بنانا

خَطَط: لائن، سطر، لکھائی، رسم خط

خَطَطُ جَوِي: ایئر لائن، فضائی راستہ

خَطَطُ سَكَّة الْحَدِيد: ریلوے لائن

خَطَّة: لائن، عمل، اسکیم، منصوبہ (ج):

خَطَط۔

تخطيط: پیمائش زمین، سروے، چک

بندی، حد بندی۔

خَفَر-خَفِير: چوکیدار (ج) خَفَرَاء

مَخْفَر: چوکی، پولیس چوکی

خَفَض: کم کرنا

تخفيض: رعایت، کمیشن

خُف: ہاف بوٹ، سلیر (ج) اَخْفَاف

خُفَّة الْبِيَد: ہاتھ کی صفائی، شعبہ

خَفَق الْبِيض: خفقا، انڈا پھینکانا۔

مِخْفَقَةُ الْبِيض: انڈا پھینکنے کا آلہ

خلص-خَالِصُ أَجْرَة الْبَرِيد: محصول

ڈاک، پوسٹنج

استخلاص: مال چمڑانا۔

خَلع-خَلَاعَة: آوارگی

خَلِيع: آوارہ، بد معاش

خَلْف-مُخَلَّفَات: متروکہ سامان

خَلْفِيَّة الصَّوْرَة: بیک گراؤنڈ، پس منظر

خَلْفَة: کپڑے کا کلرا

خَلْق-خُلُقَانِي: پرانے کپڑے بیچنے والا

إحتلاق: اخراج کرنا، گھڑنا

مُخْتَلَق: من گھڑت، ساختہ، جعلی، بناوٹی

بے حقیقت

رحالة: سیاح
 راجل: متوفی، سماجر
 رخصتہ: پرمٹ، لائسنس، اجازت
 رزمہ: رزمہ، رزمہ، ہنڈل، ہانا، پیکٹ، ہانا، ہاندھتا۔
 رزمۃ: ہنڈل، پارسل، پیکٹ (ج): رزمہ۔
 رزمۃ و زنی: کانڈ کا ایک ریم
 رَسَب: وسویا، ٹیل ہو جانا
 توسیب: ٹیل کرنا، نیچے گرنا
 رابیب: ٹیل، نہ لٹین
 رسح: مَرَسِح: ڈرامے کا سنج، تمییز
 رسل: رسالہ: پیغام، خط، پمفلٹ، مقالہ، مشن
 رسالۃ الدكتوراة: تمییز، وہ مقالہ جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے لکھا جائے۔
 رَسَالَتِیۃ: مشن، ڈپٹی، گیشن، وفد (ج): اورسالیات
 رُوسیل: نامہ نگار
 رُوسلۃ: نامہ نگاری
 رَسْم: رسما، تصویر، ہانا، نقشہ، ہانا، ڈیزائن، ہانا۔
 رَسْم: نقشہ، نقاشی، تصویر، ڈیزائن (ج): رُوسوم
 رُوسوم: فیس، محصول، ٹیکس
 رَسْمِی: سرکاری، قانونی، روانی
 رَسْمِیۃ: نیم سرکاری
 رَسْمِیۃ: سرکاری طور پر، قانوناً
 رَسْم: نقشہ ساز، ڈیزائنر، فوٹو گرافر
 رَسْم: اسٹوڈیو، فوٹو لینے کی جگہ، ڈیزائن روم
 مرسوم: فرمان، سرکلر، حکم، مقررہ اصول (ج): مراسیم
 رسو: مرسا: جہاز کا لنگر (ج): مراس
 رَسْحاء: لمنصب تو دھیجا: کسی منصب کے لئے امیدوار نامزد کرنا۔
 رَسْح: کینڈیڈیٹ، امیدوار
 رَسْح: الماء وراشیخ: فلٹر، پانی صاف کرنے کا آلہ

ذو-ذاتیۃ: شخصیت، حیثیت
 ذویع: اذاعۃ: نشر، براڈ کاسٹنگ
 اذاعات: ریڈیو نشریات، انوائس
 مذبیع: اتاؤنسر
 مذبیاع: ریڈیو، جھوپ، مائکروفون



رادبو: ریڈیو (مع) دائر لیس سیٹ
 رادیوم: ریڈیم، ایک چمکیلا مادہ
 زَأْسُ الجلسۃ: ک: صدارت کرنا
 رئاسۃ: صدارت، افسری، سربراہی
 تونیس: صدر، ہانا، افسر، ہانا، کتاب یا مضمون پر عنوان لگانا
 رَأْسْمَالِی: سرمایہ دار
 رَأْسْمَالِیۃ: سرمایہ داری
 رئیس: صدر، افسر، ہیڈ، چیف، چیئرمین
 سربراہ: زَمہ دار، ڈین
 رئیس: بنیادی
 ربط: رباط: رسی، پٹی، ڈوری، تسمہ، ٹائی، کٹیٹس
 ربیع: تریبۃ، خانہ
 رُوبۃ: درجہ، عمدہ، منصب (ج) رُوبۃ
 راتب: مالی یا منت، تنخواہ، وظیفہ (ج): روایب
 تونیب: نظام، تدبیر، انتظام
 رنج: رواج: پھاٹک، بڑا دروازہ۔
 رنل: تونیل: ترنم، گنگناہٹ
 رتن: رتینہ: گیس کی لائین، لال ٹین
 رجع: راجع... مراجعۃ: ملان کرنا، جانچنا، مشورہ کرنا، نظر ثانی کرنا
 مراجع: جانچ کنندہ، آڈیٹر، حساب رجعتیۃ: قدامت پسندی
 رجم: ترجمۃ حرفیۃ: لفظی ترجمہ
 ترجمۃ تفسیریۃ: مفہومی ترجمہ
 رَحَب: بہ ترحیباً: خیر مقدم کرنا
 توحیبی: خیر مقدمی
 رَحَلۃ: سفر، سفریاحت

دار التمشیل: جھیر، سینا گھر
 دار القضاء: پھری
 دائرۃ: حلقہ، دفتر، علاقہ، زون، دائرہ
 دورۃ: تسمہ، مقررہ وقت، درجہ، ٹالی
 عمارت کی منزل، اسٹوری
 دوریۃ: حسی، پارٹی (ج) دوریات
 ڈوار: متحرک، گھومتا (دروازہ وغیرہ) پھیری والا
 ادارۃ: نظم و نسق، انتظام، اہتمام، دفتر، محکمہ

اداری، انتظامی
 مداور: وقت شناس، زمانہ ساز
 مذبو: ناظم، مہتمم، منیجر، کلرک (ج) مداور
 مذبیۃ: ضلع، صوبہ (مصری)
 دوس: دواسۃ: ہائیکل یا کسی انجن مشین وغیرہ کا پیڈل
 ذولۃ: حکومت، ریاست، مملکت (ج) ذول
 الذول العظمی: بڑی طاقتیں
 ذولۃ: بین الاقوامی
 مداولۃ: مخصوص بات چیت (ج)
 مداولات

ذولۃ تدویلاً: بین الاقوامی ہادینا
 دیوان: عدالت، دفتر، محکمہ
 دیمقراطی: عوامی، ڈیموکریٹ
 دیمقراطیۃ: جمہوریت



ذخو: اشاک کرنا، احتیاج جمع کرنا
 ذخیرۃ: اشاک، جمع کردہ مال، فنڈ، سرمایہ
 اشجار: مال جمع کرنا، روپیہ بچانا
 ذرۃ: آٹم، جوہر فرد
 ذری: ایٹی، جوہری
 ذکر: ذکر، یادگار، یاد
 تذکار: یادگار، یاد
 تذکرۃ: ٹکٹ (ج): تذاکر
 تذکرۃ: ٹکٹ، بابو، ٹکٹ کلرک
 مذکرۃ: میمورنڈم، یادداشت، نوٹ بک
 ایڈیج: مذکرات

زائر: ملاقاتی (ج) ہُوَار
مَواژ: قابل زیارت مقام
زول: زاوَل العمل مَواوَلَة: مسلسل کرنا
بطور پیش کرنا۔
مِوَزول: ٹیلیفون کا ڈائل
مِوَزولَة: دھوپ کھڑی
زَیْت الالَة: مَشین کو تیل لگانا۔
زَیْت الغاز: مٹی کا تیل
زیاد: زیادَة: اضافہ، الاؤنس
زائِدَة دودِیَة: اپنی سائیس
مَواذ: ٹیلام
مَوايِدَة: فروختگی بذریعہ ٹیلام
ذِی: طرز، فیشن، ہمیں، روپ (ج): آڑیاء

س

سَأَل: مسئول: ذمہ دار
مَسئولَة: ذمہ داری
سَبَخ: کھاد (دارج)
سبر: سَبوَدَة: تختہ سیاہ، بلیک بورڈ
مَسبَر و مَسبَر: کسوٹی
سبر تو: اسپرٹ
سبق: سبق: گزشتہ جرائم
سبک: ذُھلای، دھاتوں کی گھائی
مَسبک: ذُھلای کا کارخانہ
مَسبک حروف الطباعَة: ٹائپ فونڈری
مسیک: سونے چاندی یا دیگر دھاتوں کا
پکھلا ہوا ڈالا (ج): سبائک
سَسْت: خاتون (ا)
سَسوْتی: ساٹھ سالہ
بستر: بستر: آڑ، رکاوٹ
سُسْتَرَة: کوٹ، آستین دار صدری
سَسجَادَة: جامناز، قالین (ج) سجاجید
سَسجَل... سَسجیلا: درج کرنا، رجسٹر میں
لکھنا، بیان وغیرہ قلمبند کرنا، ریکارڈ کرنا،
رجسٹری کرنا۔
مَسسَجَل: رجسٹر، مندرج
مَسسَجَل: رجسٹرار
مَسسَجَلَة: ٹیپ ریکارڈر، آواز محفوظ کرنے

رود: زائد، راجھا
رائد القضاء: خلاء باز، خلائی مسافر، خلائی
کھوج لگانے والا، اسکاؤٹ
روی: روایة: ناول، قصہ
روائے: ناول نویس
زَی: آب یابی۔
ریف: ریمات، زراعتی زمین۔ (ج) اریاف

ز

زَبَدِیَة: پال (ج) زَبادی
زَبَل: زَبالَة: کوڑا
صندوق الزبالة: کوڑے کی گاڑی
مَواوَلَة: کوڑا خانہ
زَحَف الحیش: پیش قدمی کرنا
زَحافَة: زمین ہموار کرنے کا آلہ
زَحْلوقَة: پھسلوان زینہ، پھسلوان تختہ
زَعَم: زَعامة: لیڈری، لیڈر شپ
زَعیم: قوم کا لیڈر، سربراہ (ج) زَعماء
زَعیم عصابی: کسی پارٹی کا سرغنہ
زَلت: تارکول
زَفْتَة: ترفیٹا، تارکول مانا ڈالنا۔
زَکب: زَکیبَة: بوری، بڑا تھیلا
زَلج: مزلاج، چمچتی
مَواوَل ج: پھسلوان کھڑاؤں
زَلط الارض: تزلزل، زمین پر کھکھرت ڈالنا
زَمَل: زَمیل: شریک کار، ہم پیش
زُنبرک: اسپرنگ
زَنک: لوتیا، جست
زَهْرِیَة: گلدان، پھول رکھنے کا برتن (ج):
زَهْرِیَات
مَواوَل: گلدان
زوج: کسی شے کا جوڑا، دو
مزدوج: ڈبل، دوہرا
مَحظَة مَواوَل ج: ڈبل لائن
زَوَدَة ب... تزویدنا: ہم پہنچانا، سیلانی
کرنا، دینا
زَوْرَة: ایک ملاقات
زِيارَة: ملاقات، کسی ملک کا دورہ

وہل: زَھافَة: آب پاش
زَھافَة الزَھاف: مَشین مکن
زَھد: زَھد: محفوظ سرمایہ، بینک، بیلنس
(ج) اَزْھدَة
وہل: زَھاص: پیسہ
قلم الزَھاص: پنسل
زَھاصَة: گولی (مدوق کی)
زَھف: آدھف: راستہ کو پختہ کرنا
موصوف: پختہ، ہمیشہ
زَھیف: پلیٹ فارم، فٹ پاتھ (ج):
اَزْھفَة
رَضع: رَضاعَة: دودھ پلانے کی شیئی
رطب: مرطبات، فزحہ، غسل، مشروبات
زَعویَة: ملکی حقوق، پمیشن
رُھا: مَواوَل: پورٹ، بندرگاہ (ج) مَواوَل
رُف: مَواوَل ج: مَواوَل: ضروریات و
لازم شے، تاگزیر لوازم
اَزْھق... بکنا: منسلک کرنا، تنہی کرنا
مَواوَل ج: ہمرست، منسلک
مَواوَل ج: بلا ٹنگ پیپر
رُقب: رُقبَة: گمرانی کرنا
رُقبَة: گمرانی، کنٹرول، سنسر، چھان بین
مَواوَل ج: گمران، سپروائزر
مَواوَل ج: رصد گاہ
مَواوَل ج: ٹیلی سکوپ
رُقب: رُقبَة: قاصد الساعَة: ہنڈولم
مَواوَل ج: ناچ گھر، ڈانسنگ ہال
رُقب: رُقبَة: العنوان، لیبل، چیٹ
مَواوَل ج: اسٹینسل
رُقب: رُقب (ج) ارقام
مَواوَل ج: نمبر ڈالنا
رُقب: مَواوَل ج: سواری، جہاز
رُقب: مَواوَل ج: مسافر
رُقب: مَواوَل ج: مرتبہ، پوزیشن، عہدہ، اسمی
پوسٹ، صدر مقام
رُقب: رُقب: گوٹھدار
رُقب: رُقب: حاضر و موجود
حالة رُقب: موجودہ حالت

سمع - وسماع : اٹھٹ سوکھ ' یعنی آلہ جس کے ذریعہ سینے کی آواز سنی جاتی ہے۔
سَمَوَاتُ : بلندی، عظمت (کلمہ تعظیم) جو عموماً شاہی خاندان کے افراد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت، عالی جناب
سَمَاوَةٌ : چھٹا، آسمان
سَمَدٌ : رسید، واؤج، ڈھینچہ، پونڈ
سَمَدَاتٌ : دستاویزات
مُسْتَدَاتٌ : دستاویزات
سَهْمٌ : کھپنی کا حصہ، شیر
مُسَاهِمٌ : حصہ دار
سَاهِمٌ وَأَسْهَمٌ : فی حصہ لینا
سَهْمٌ لَارِيٌّ : راکٹ
سَيْحٌ : ساحہ، میدان، گراؤنڈ
سَاحَةُ الْمُنَاصَرَعَةِ : کشتی کا دوگل
سُودٌ - سَادٌ : چھاپنا، سڈھ جانا
بِيَادَةٌ : اقتدار، ہلاستی
سَيْدٌ : بااقتدار، مشر، جناب
سَيِّدَاتٌ : خواتین
سُورِيَا : ملک شام
سُورِيٌّ : ملک شام کا رہنے والا
سُوعٌ - صَاعَةٌ : گھڑی
سَاعَاتِيٌّ : گھڑی ساز
سُوقٌ : بازار، مارکیٹ
سُودَاءٌ : بلیک مارکیٹ
تَسْوُوقٌ : خرید و فروخت کرنا
سُوقٌ : ڈرائیوری، گاڑی چلانا
سُوقٌ : سائق، ڈرائیور
سُوقِيٌّ : تسویہ، برابر کرنا، بھجڑا چکانا، حساب بے باک کرنا۔

سَيْحٌ - سِيَاحٌ : ہاڈھ، چار دیواری
سَيَّحَةٌ : سگریٹ (ج) : سجانر
سَيْرٌ : رفتار، چال، ترقی
سَيَّارَةٌ : موٹر (ج) : سیارات
سَالُوٌّ : ترقی یافتہ، متحرک، جاری



شأن (ج) : شئون، حالات، معاملات

سَفِينَةٌ - سَفِينَةٌ : جہاز (ج) : سفین
سَفِينَةٌ : کشتی، رانی، جہاز رانی
سَقَطِيٌّ : پرانے کپڑوں کا تاجر
سَقْفٌ - سَقْفَةٌ : سائبان (ج) : سفائف -
سُكْرٌ : شکر، کھانڈ
سُكْرٌ : خام، گریزا شکر
سُكْرِيَةٌ : شکر دان
سُكْرُوجَةٌ : طھتری، پلیٹ
سُكْرَتِيٌّ : سیکرٹری
سُكْرَتَارِيَّةٌ : سیکرٹریٹ، سیکرٹری آفس
سَيِّكَةٌ : الحديد، ریلوے
سَلْحٌ... تَسْلِيْحًا : مسلح کرنا
سِلَاحٌ : الطيران، فضائی طاقت، ہوائی فوج
تَسْلِحٌ : اختیار، ہندی
سَلْطَةُ : اختیار، منصب، حاکم
مُطَلَقَةٌ : اختیار کامل
سَلْطَاتٌ : حکام، اتھارٹیز
سَلْطَةٌ : چٹنی
سَلْطَانِيَّةٌ : بڑا پالہ، ڈونگا
سَلْفَةٌ : قرض، مع سود
مَلْفًا : بیٹھی، پہلے
سَيْلٌ : تار، لائن (ج) : اسلاک
سَيَّاسِيٌّ : سیاسی لائن
سَلُوْكٌ : طرز عمل، چال چلن، برتاؤ
سَلُوْكِيٌّ : چال چلن سے متعلق
لَايَسَلْكِيٌّ : وائریس
سَلٌّ - سَلَالَةٌ : مِلْكِيَّةٌ : شاہی خاندان
سَيْلِيٌّ : پراسن، اسن سے متعلق
تَسْلِيْمٌ : وصول کرنا
سَالْمَةٌ : مُسَالْمَةٌ : صلح کرنا
مُسَالِمٌ : صلح پسند، صلح جو
مُسْتَقِيْمٌ : وصول کنندہ
سَمَحٌ - سَمَاحَةٌ : عان، عظمیٰ، فراخ دلی،
روداداری (اعزازی خطاب)
سَمَاحَةٌ : فِلَانٌ و صاحب السَمَاحَةِ -
مُسَامَحَةٌ : قہلیل، چھٹی، معافی
سَمَدٌ : الْأَرْضُ : تسمیڈا، کھاڈا، انا
سَمَادٌ : کھاڈ (ج) : اُسُيْدَةٌ

کالہ
سَبْجَلٌ : رجسٹر، ریکارڈ، قدیم کاغذات و دستاویزات (ج) : سبجالات
سَبْجَانٌ : جیلریا، جیل کا داروغہ
سَخْبٌ : لاٹری، لگانا، کسی علاقہ سے فوج ہٹانا، لائنس وغیرہ ضبط کرنا۔
سَحْقٌ - مَسْحُوقٌ : پاؤڈر، مچن (ج) : مساحیق
سَخْنٌ - سَخْنَانٌ : پانی گرم کرنے کا ساور، پوٹر، بجلی کا چولہا۔
سَدَسٌ - مُتَسَدِّسٌ : ریولور (ج) : مُتَسَدِّسَاتٌ
سِرْبٌ : طائرات، ہوائی جہازوں کی کھپ
سَرَّحٌ : الجیش، فوج توڑنا
سَرَّاحٌ : رہائی
إِطْلَاقُ الشَّرَاحِ : رہا کرنا
مَسْرُوحٌ : تراشاگاہ
مَسْرُوحِيَّةٌ : ڈراما (ج) : مسرحیات
سَرْدٌ - سَدْرَةٌ : شامیانہ، لگانا۔
سَرَادِيْقٌ : شامیانہ، پنڈال
سَرْعَةٌ : تیزی، رفتار، اسپید
سَرِيْعٌ : ایکسپریس
سَطْرٌ - مِسْطَرَةٌ : اسکیل، پیمانہ، جدول کش
سَعَادَةٌ : خوشحالی، تقبلی لقب
صَاحِبُ السَّعَادَةِ : یا سَعَادَةُ فِلَانٌ : عزت مآب
مُسَاعِدٌ : مددگار، اسٹنٹ
بِيعَةٌ : نزع، ہماڈ (ج) : اَسْعَارٌ -
سَعْرُ السَّلْعَةِ : سامان کی قیمت مقرر کرنا۔
سَاعُوْهُ : ہماڈ کرنا، سودا کرنا
بِيعَةُ التَّبَادُلِ : شرح چارڈ
سَعْفٌ - اَسْعَافٌ : ریٹیف، امداد، طبی امداد
سَعِيٌّ - سَاعِيٌّ : التبرید، پوسٹ مین
سَفْتَحَةٌ : ہنڈی
سَفْرٌ - سَفِيْرٌ : ایک ملک کا دوسرے ملک میں مستقل نمائندہ (ج) : سفراء
سَفَارَةٌ : عمدہ سفارت، سفارت خانہ
سَفُورٌ : بے قبلی، بے پردگی

شَفَاعِي: سفارشی	شروعی: قانونی، جائز	کیفیات، ضروریات
شَفَهِي: شَقِي: زبانی	شَارِع: قانون ساز، لائحہ عمل اور منصوبہ	شَبِك: شبکہ، جال، جال
شَفُو: مستشفی: ہسپتال (ج):	تیار کرنے والا	اشتبَاک: الجھاؤ، تصادم، جھڑپ
مستشفیات:	تشریح: قانون سازی	شُبُك: سگریٹ پائپ، حقہ کی نلے
شَفَّة: عمارت کی ایک منزل، ایک حصہ	مَشْرُوع: اسکیم، منصوبہ، مسودہ قانون، جائز	شُبَاک: سلاخوں دار کھڑکی (ج):
شُكْر: شُكَاة: تُوَس وغیرہ پیکنے کی جالی	مَشْرُوع: قانون دان، پیرسٹر	شُبَايِك: شُبَايِك، بکسوا، کلپ
بِک، تھیلا	شُرُف: عزت، اعزاز، فخر	شِبْه جزیرة: جزیرہ نما
شُكْل الکَلْمَة: شکل، اعراب لگانا	شُرُفِي: اعزازی	شِبْه رسمِي: نیم سرکاری
تشکیل: مصور کرنا، شکل دینا، تکمیل دینا،	أَشْرُف عَلِي: عمرانی کرنا	شَتْو: مشقی، گرم مقام جہاں موسم سرما
کھینٹی وغیرہ بنانا۔	المَشْرُف: گھراں، سرپرست	گزارا جائے (ج): مشقیات
تشکیلات: انتظامات، تیاریاں	شُرُفَة: بالکنی، گیلری (ج): شُرُف	شَجَب: مشجب، بک، کھوٹی
مُشْكِلَة: پیچیدہ مسئلہ، الجھن، قضیہ	تشریفہ: تقریب سرکاری	شَج: تشجیع، ہمت افزائی
مَشْكُول: بااعراب	تشریفاتی: سرکاری تقریبات کا منتظم	شَحَط: شُحْطَة: دیاسلائی
شَلَل: شَلَال، آبشار (ج): شلالات	شُرُوق: مشرقی ممالک	شَحْن: شحنا: کٹھی یا جہاز پر مسلمان لادنا
شَمَع: شَمَاعَة: کپڑے لگانے کا بک یا	الشرق الادنى: مشرق قریب	شَحْن و شَحْنَة: وزن، لوڈ، لادی، لادا
اشینڈ	الشرق الاقصى: مشرق بعید	جانے والا مسلمان
شَمَع: آئل کلاتھ، موم کی پالش کیا ہوا	شُرُوك: جال، پھندا	شَدْد: شدوڈا، جماعت سے الگ ہونا
کپڑا، چمنا کپڑا	شُرُوكَة و شُرُوكَة: کپھنی، فرم (ج): شُرُوكات	خلاف قیاس ہونا، مخالف اصول ہونا
شَمَاعَة: لال ٹین کا کلا، بریز	شُرُوك و شُشَارِك: حصہ دار	شُرُوب تشریفاً: پیوست کرنا، دماغ میں
شَنْط: شَنْطَة: بیک، تھیلا	اشتیراک: اخبار یا رسالہ کی خریداری، اخبار	بھانا، تلقین کرنا۔
شَهْدَة المجلس: شہودا، شریک ہونا	یا رسالہ کا چندہ۔	شُرْبَة: یعنی سوپ
شَهَادَة: تقدیر نامہ، سرٹیفکیٹ، سند	اشتیراکي: سوشلسٹ	شُرَاب: شربت، مشروب
فرہفت، ڈیپوما (ج): شہادات	اشتیراکيَة: سوشلزم	شُرُج: فیتہ، ڈور
الشَّاهِدَة: رجسٹر مراسلات جس میں خطوط	اشتیراکيَة متطوِّفَة: کیونزم	شُرُوح: کہ شرحا، سلاکس، کاشا، پوسٹ
کی نقل محفوظ رکھی جاتی ہیں۔	شُطَب: آ شطبا، مٹانا، قلم ڈر کرنا، نام خارج	مارم کرنا
شَهْر البندقیَّة: کہ شہوا، بدوق تانا	کرنا۔	شُرُوحَة: سلاکس، لہبا کلن، قاش
إشهار: اعلان	شُعْب: پبلک، عوام (ج): شعوب	مَشْرُوحَة: چھیڑھاڑ اور پوسٹ مارم کا کرہ
شَهِي: مرغوب، مقبول	شُعْبِي: عوامی، جمہوری	شُرُود: فرار، آوارگی، اشتراک دینی
شُور: شَاوَة: نشان خاص	شُعَار: نشان امتیاز، بیج، مارک	شُرُوطَة: پولیس (ج): شُرُوط: شرطی
إشارة برقبة: ٹیل گرام	شُعُور: جذبہ، وجدان	شُرُوطَة: (-) چھوٹا خط جو دو جملوں کے
إشارة سكة الحديد: ریلوے سگنل	شُعَل: مشاعلی، مشعل بردار	درمیان ہوتا ہے۔
أشْرَجِي: سگنل بین	شُعْب: بدامنی، شرارت، نساؤ، ہنگامہ	شُرُوطِيَة: معاہدہ، بندھی ہوئی شرط
المشیر: فیلم مارشل	شُعَاب و مشاعب: غنڈہ، نساؤ	شُرُيْب: فیتہ، تسمہ، ٹیپ، پٹی (ج):
مُشْتَشَار: مشیر	مُشَاعَبَة: غنڈہ گردی، نساؤ، گیلری	أشْرُوطَة
شُوش: شاشہ، پردہ، سیمیں	شُعَل: مشعل، مصروفیت	بِشْرُوط: آلہ برائی سے جس سے جلد کو کاٹنا
شواہش: سارجنٹ، دس سپاہیوں کا افسر	شُعْل: تشغیلا، کام پر لگانا، مصروف بنانا	جانے۔
شُوی: شُوَايَة: بھوننے اور پیکنے کا آلہ	شُعْلین چالو کرنا۔	شُرُوع: کہ شرعاً، قانون بنانا۔
فرائی پن، کڑچھا۔	شُعَال: کارکن، مزدور، بے حد مصروف	


صنایعی: صنعتی: مصنوعی	نامہ	شیت: چیٹ: ایک کپڑا
صنایع: کارنگ (ج): صنایع	صرخ: صاروخ: راکٹ (ج): صواریخ	شعب: شائعة: افواہ (ج): شائعات
مصنع: کارخانہ: مل: ٹیکسٹائل (ج):	صاروخ: تارپڈو	شیوع: اشاعت
مصانع	صرع: صراعة: کشش	شیوعی: کیونسٹ
مصنوعیۃ: اجرت: مزدوری	مصنوع: اکھاڑا	شیوعیۃ: کیونزم
صہر: ک: صہر: معدنیات کو کھلانا	مصارع: پہلوان	اشاعة: افواہ (ج): اشاعات
صہریج: پانی کا تلاب: ٹیکسٹائل: حوض	مصارعہ: پہلوانی کشش	
ریلوے انجن کے پیچھے لگا ہوا ڈبہ	صروف: صرفاً: خرچ کرنا: ٹوٹ بھناتا: رقم	
صوب الہ: نشانہ لگانا: رخ کرنا	کا تبادلہ	
صوت تصویق: ووٹ دینا	تصرف: کارروائی: تدبیر: روش	صالۃ: بڑا کمرہ: کمرہ استقبال
صوت ووٹ (ج): اصوات	تصرفات: طور طریق: افعال و حرکات	صبح: مصباح: لیپ
مصوت: ووٹ: الیکشن میں رائے دینے والا	صراف: کیشیئر: تحویلدار: رقم یا سکہ	صبح: مصنع: ٹیکسٹائل کی جالی
صودا: سوڈا	تبدیل کرنے والا	صبح: مصنعة: رنگائی کا کارخانہ
صودا کاویہ: سوڈا کاسٹک	مصروف: بٹک (ج): مصارف	صبن: صبان: صابن ساز
صووة: نقل: کاپی: نسخہ: فونو	مصروف الماء: پانی کی ٹالی	صابونۃ: صابن کی ٹکیہ
تصویرة: فونو: تصویر	مصروف: خرچ (ج): مصاريف	مصنبة: صابن کا کارخانہ
وضوۃ: کیمرو	مصاريف الدعوی: ڈگری خرچ	صحح: صحیحی: صحت افزاء: صحت سے متعلق
صیغۃ القانون: قانونی اسلوب: طرز	متصرف: باختیار	صحف: اخبارات واحد: صحیفہ
صوۃ: کیمین: چھوٹا کیمرو	صفح: مصنفحات: زرہ پوش گاڑیاں: بکتر	صحاف: اخبار فروش
صوان: الماری: بکس	بند گاڑیاں	صحافة: اخبار نویس
صید: مصنعة: بھیندا: جال: چوسے دان	صفیحة: معدنی چادر: پلیٹ (ج): صفائح	صحفیی: اخبار نویس
صیدلۃ: دواسازی	صفیر تصفیرا: کٹی: بھینا	صحن: پلیٹ (ج): صحون
صیدلۃ: فارمیسی: انگریزی دواخانہ	صفارة: کٹی	صدد: سلسلہ: تعلق: بصدد کذا فلاں چیز کے سلسلہ میں
صیدلۃ: صیدلانی: انگریزی دوائیں	صف الحروف: صفا: کپور کرنا: لوسے	صدد الكتاب: پیش لفظ لکھنا
فروخت کرنے والا	کے حروف کو ترتیب دینا	اصدار: جاری کرنا: شائع کرنا
صیر: مقصیر: انجام: قسمت	صف: لائن: نقلی: درجہ: کلاس (ج):	تصدیر: کتاب کا پیش لفظ: بیرونی ممالک میں مال بھیجنا: ایکسپورٹ: برآمد
صیف تصیفا: گرمی کا موسم گزارنا	ضفوف	صادر: باہر جانے والا مال
مصیف: ٹھنڈا مقام: موسم گرما گزارنے کی جگہ	صفاف: کپوزیٹر	صادرات: برآمدات
صینۃ: ٹرے: مینی	صفل: صقل: پالش کرنا	مصدر: سرچشمہ (ج): مصادر
	صفیل: پالش کیا ہوا: پینا: چمکدار	مصادر علمية: باخبر حلقے
	صلح: صلاحیت: لیاقت: اختیار	مصدرۃ: صدیوی: واسٹ: صدی
	صالح: مفاد: منفعت	صدریۃ: عورتوں کا سینہ بند
	مصلحة: حکمہ: فائدہ	صدق: صادق علی: ... مصادقة:
	صلصلة: شوربا (دا)	منظوری دینا: جائز قرار دینا
	صمم: تضمیم: خاکہ: ڈیزائن (ج):	صرح بکذا: بیان دینا: وضاحت کرنا
	تصامیم	تصریح: بیان: اجازت نامہ: اعلان: اقرار
	صنوبر: ٹینو (ج): صنابیر ٹوٹیاں	
	صنع البلاد: تصنیع: ملک کو صنعتی بنانا	



ض

ضبط الباب: دروازہ کو ہمیشی تالہ لگانا
 ضبط الباب: ہمیشی تالہ چھنی
 ضبط: طمان: ہنج
 ضبطیۃ: پولیس اسٹیشن
 ضابط: افسر (ج): ضابطہ
 ضابطۃ: پولیس

طوف - طاف البلاد - دورہ کرنا
طواف : سیاح 'ایجت' دلال
طائفۃ : گروہ ' فرقہ
طائفی : فرقہ دارانہ
طوقہ تطویقا : گھیراؤانا ' احاطہ کرنا
طائفۃ : مجموعہ ' گچھا ' کھڑکی ' روشن دان
طابقۃ : ٹوپی (ج) طالیبات
طوق القمیص : کار
طول - طوَال : بین ' ڈائریکٹ (حقیقہ طوَال)
بین لائن
طوی - طَوَايَا : فراہی بین
طیب - طابۃ : (گیند کا) بلا
طیران : ہوا بازی ' پرواز
طیار : ہوا باز
طیارۃ : ہوائی جہاز ' ہنگام
طائرة : ہوائی جہاز
مطار : ہوائی اڈہ ' ایئر پورٹ



ظرف : حالت ' لفظ ' کارٹوس (ج) :
ظروف
ظلة : ساتھان (ج) : ظلل
مظلة : چھتری (ج) : مظلات
بظلتی : چھاندہ بردار فوج کا سپاہی




عبثاً تعبثہ : بھرتی کرنا ' پیک کرنا
عبثۃ : بوجھ ' ذمہ داری (ج) : اعباء
تعبثہ : بیگانگی ' بھرتی
عبد - عبودیتہ و استعباد : غلامی
مُستعبَد : غلام ' محکوم
عَبَدَ الطریق تعبیڈاً : راست ہموار کرنا
عبور - عبوری : عبرت آموز
عبارة : تعبیر ' تفصیل ' طرزِ ادا
عابو : سرسری
عقب - عقبی : باکمال (ج) : عقبرة
عقبیۃ : کمال ' فطری قابلیت
عجل - عاجل : فوری ' ہنگامی

طرح - مظاہرۃ : بیت بازی کرنا -
أطروحة : تمیز ' تحقیقی موضوع جو ڈگری
کے حصول کے لئے مقرر کیا جائے۔
تَلَوْدٌ : پارسل ' پیکٹ (ج) : طرود
طَلَوْدٌ : گروہ ' جہتی جہاز ' پل
طرید : آوارہ
طرز - طریز : امیر انڈری ' کشیدہ کاری
طراز : نازل ' ساخت ' فیشن
طرف - تطرف : اتنا پسندی
طرم - طارمۃ : کھڑکی کا کمرہ ' کیمین
طرمیۃ : پست ' سرخ ' پچکاری
طینت : سفلی ' ہاتھ دھونے کا برتن
طعم - مظعم : ریسٹورینٹ ' کھانے کی ڈکان
ج : مطاعم
طفا - و مظفاۃ - طفاۃ : فائر انجن ' آگ

ج : مطاعم

بچانے کا آلہ
ظفوس : موسم ' تھوار ' سیلہ (ج) : ظفوس
ظفم : کسی چیز کا سیٹ ' مجموعہ ' جوڑا
ظفحۃ : کانڈ کی ایک شیٹ
ظلس - اظلس : اٹلس ' ریشمی کپڑا
ظلق - اطلاق : رہا کرنا ' گولی چلانا
ظلقۃ : شرت ' فائر فائرنگ کی آواز
ظلم ' مظلمۃ : بیلن
ظلمیۃ : وائرپس ' تل
ظلی - ظلیا : روشن کرنا ' پاش کرنا
ظلاء : روشن ' پاش ' رنگ (ج) : اظلیۃ
ظہی - ظاہی : باورپی (ج) : ظہاء
ظوب : اینٹ و : طوبۃ
ظوَاب : اینٹ بنانے والا
ظوبجی : توپچی
ظوبجیۃ : توپ خانہ
ظور - تطوّر : تبدیلی ' انقلاب (ج) :
تطوّرات
تطوری : تفسیریزیر
ظورہید : تاریخو ' چلو کن ' بحری جہاز
ظوی تطویا : رضا کار بنانا -
تطوع : رضا کار بنانا ' والنٹیری
متطوع : رضا کار ' والنٹیر


مَضْبُطۃ : معاہدہ ' کارروائی
ضغ - مضغۃ : پپ ' پنڈ پپ ' پچکاری
(ج) : بمضغات
ضربۃ : وار الضرب جہاں سے ڈھالے
جاتے ہیں ' کسال
ضربۃ : ٹیکس (ج) : ضربالب
اضطراب : ہنگامہ ' گھڑبو
مضرب : بلا ' بیت
ضغط : دباؤ ' زور
ضم... الی... ضمناً : شامل کرنا
ضمیف - مضیف : مہمان خانہ
ضمیۃ : زیادتی ' شمولیت
ضمیۃ : زائد ' اور ٹائم
ضیق - مضیق : گھٹانے ' دو سمندروں کا
درمیانی راستہ



طیب : علاج ' ڈاکٹر ' حکیم
جَوَاح : سرجن
ظنۃ : الاپین
طابع : نشان ' چھاپ ' مر (ج) : طوابع
(ڈاکٹر)
مطبعة : پریس ' چھاپہ خانہ
مطبوعات : چھاپا ہوا مواد
طباق : تہا کو
طاقی : مکان کی ایک منزل (ج) : طوابع -
ظنۃ الفنغراف : ساؤنڈ بکس
ظبونة ' طاہونۃ : تھور ' بیکری ' بکٹ وغیرہ کا
کارخانہ
طیان العجلۃ : باز
ظنۃ : ہسٹول
طاجن : فراننگ پن ' کڑچھا
طحن - طاحونۃ : آٹا پیسنے کا انجن
مظحنۃ : آلے کی کل
طوا - طاری : ہنگامی ' غیر متوقع
طواری : ہنگامی حالات ' امیر جنسی
طوب - مطوَب : نمہ ساز ' گانے والا
ظورہید : تاریخو

عقوبة مالية: جرمانہ عقد - عقدا: معاملہ کرنا، معاہدہ کرنا، جلسہ بلانا، کتاب میں فصل قائم کرنا، دیوار میں ڈاٹ لگانا۔ عقیدہ: ایک فوجی عہدیدار عقرب الساعة: گھڑی کی سوئی۔ (ج): عقارب عقل - اعتقال: نظر بندی معتقل: نظر بندی کا مقام، جیل غلبة: ڈبا، ڈبیا۔ (ج): غلب علاج - عالج... معالجة: کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کرنا، کسی موضوع پر قلم اٹھانا، بحث کرنا، زیر بحث لانا معالجة: تدبیر، علاج علق، تعلیق: تمبر، حاشیہ علم - استعلام: انکوائری، تحقیق مکتب الاستعلامات: دفتر تحقیقات انکوائری آفس تعلیمات: ہدایات علو - علاوة: زیادتی، اضافہ علاوات الغلاء: گرانی الاؤنس علوان: عنوان، پتہ عمدة: کھیا، چودھری عمود: اخبار کا کالم، (ج): اعمدة عمید: سربراہ، پرنسپل، ریکٹر، کالج یا یونیورسٹی کا سربراہ (ج): عمداء اعتماد: ساکھ، منظوری، قرض اعتماد مالی: فنڈ (خطاب) اعتماد: ہنڈی، مالی رقعہ (اوراق) اعتماد: شناختی کاغذات، تھارٹی (سرکاری) کاغذات عمر - استعمار: سامراج، آباد کاری، نو آبادی بنانا مستعمرة: کالونی، نو آبادی وہ حصہ زمین جس پر غیر ملکی جماعت قابض ہو (ج): مستعمرات	عسکر العیش: فوج کا فیمہ زن ہونا عسکری: فوجی معسکر: بارک، فوجی کیمپ عشَب - عشَاب: جزی بوٹیوں کا ماہر، تاجر نباتات، گھاس فروش عصبة: گروہ، جماعت، لیگ عصبة الامم: انجمن اقوام متحدہ (حرب) العصابات: گوریلا جنگ عصدة - عصيدة: دلیا، حریرہ عصف - عاصفة: آندھی، طوفان عصم - عصام: ڈوری، رسی، تسمہ، پٹی (ج): اعصمة عاصمَة: پایہ تخت، راجدھانی (ج): عواصمة عصی - عصیان مدنی: سول نافرمانی عضو: کسی جماعت وغیرہ کا ممبر و رکن (ج): اعضاء عضویَّة: ممبری، رکنیت عطفة - منعطف: گلی، روڑ (ج): منعطفات معطف: کوٹ (ج): معاطف عاطفة: جذبہ (ج): عواطف عاطفیَّة: جذباتیت عواطفی: جذباتی عَقَل: بیکاری عُطَلَة: لٹیل، چھٹی (ج): عُطَل عَقَل تعطیلا: بے کار کرنا، معطل کرنا، کام بند کرنا، لٹیل کرنا، ملتوی کرنا۔ تعطیل: التواء رکاوٹ، تعویق عطو - عطاء: نذر (ج): عطاءات عظمة: شان و شوکت صاحب العظمة: بڑبڑیسی، سلطان کا لقب عفریة: گاڑی کو ادھر اٹھانے کا آلہ عفش: سامان سفر، فرنیچر عفوا: معاف کیجئے، خود بخود عَقَب تعقیبا: تمبرہ کرنا، نکتہ چینی کرنا	مستعجل: ہنگامی، ارجح مستعجلة: تیز رفتار گاڑی عجم - معجم: ڈکشنری (ج): معاجم عجن - معجون الاسنان: ٹوتھ پیسٹ عدد - عدَد: میٹر (ج): عدادات عدة: سامان، تیری (ج): عُدَد عدسة: چشمہ وغیرہ کا شیشہ عدل - تعدیل: ترمیم (ج): تعديلات معدل: اوسط رفتار عَدَن تعدينا: کان کھودنا، کان سے معدنیات نکالنا مُعَدِن: کان کن عدوان: جارحیت عدائی: جارحانہ عربة: گاڑی، (ج): عربات " (۳) ریلوے ویگن عروش: تخت۔ (ج): عُروش وعریش: جانوروں کا باڑا " و تعریشة: ٹی، لکڑی یا لوہے کی جالی جس پر انگور کی تیل ڈالی جاتی ہے۔ عرض: پیش کش، نمائش معرض: نمائش گاہ استعراض: جائزہ، نظر ثانی معروض: برائے فروخت عرك - معركة: لڑائی، ہنگامہ، نساد (ج): معارک عری - مستعار: عارضی، مصنوعی عزبة: فارم، کھیت عزز - عزیز الجانب: طاقتور، مضبوط بالتدار آدی عزیز الصال: ناممکن الحصول عزف: سارنگی، بھانا عازف: سارنگیا، گانے بجانے والا معزف: باجا، ساز، آلہ موسیقی عزم - عزيمة: دلیر، دعوت دہیہ عسس: چوکیدار، پہرہ دار، عاس
---	---	---

جوڑنا۔
 غواء: سریش، ایسا مادہ جس سے کوئی چیز جوڑی جائے۔
 غزل: کتابی، سوت
 مغزل: سوت کا تکیے کا مشین
 غزوہ: غزوۃ، یورش، حملہ
 مغزی: خلاصہ، میدان جنگ
 غطو - غطاء: ڈمکن، غلاف، سرپوش
 (ج): اغطیۃ
 غفر - غفیر: (وا) سپرہ دار
 غفارة: علماء یسود کا لباس
 غلف - غلف الكتاب وغیرہ: کور
 چڑھانا۔
 غلاف: کور، ٹائٹل، سرورق (ج): اغلفة
 غلغل: استغفال: نفع اندوزی
 غلی: غلائیۃ: سادہ پانی گرم کرنے کا برتن
 مغلی الاغشاب: جو شاندار
 غلسیرین: گلیرین
 غلیون التدخین: تمباکو پائپ، حقہ
 غمر: مغامرة: جاہل بازی
 مغامر: جاہل بازی
 غور: مفاوہ - (ج) مفاوہ: جنگجو، دلیر
 غاز: گیس (ج): غازات
 (۳) پڑول، مٹی کا تیل
 غوص - غوصاۃ: غوطہ مار ششی
 مفاص: غوطہ گاہ
 غیبۃ: بے ہوش کرنا
 (عقار) مَغِیْب: بے ہوش کرنے والی دوا
 غیر - غیر: تبادلہ
 (قطع الغیار): قاتل پڑے
 غیطانۃ: کھیت والا، باغ والا



ف

فال - مفاصل: پرامید
 فبریقہ: کارخانہ
 فصح - فتاحۃ غلب: ڈبے کو لے کر چالی

عائدہ: فائدہ (ج): عوائد
 عوائد: ٹکس، مال گزارہ
 عیادۃ طبیۃ: مطب
 عود النقباب: پھول جھڑی
 عور: مستعار، مصنوعی، جھوٹا
 عوق: عوآقہ: ریلوے بریک وین
 عول - عائللہ: کنبہ، فیملی، گھرانہ (ج):
 عائلات
 عوم - عوآمۃ: مچھلی کے کانٹے کے ساتھ ڈور
 میں بندھی ہوئی لکڑی
 عون - اعانۃ دراسیۃ: تعلیمی وظیفہ، اسکار
 شپ
 غیر - عیابۃ: جا بچنا، ناپ تول کرنا، ٹیسٹ کرنا
 عیار: مقدار، ناپ (ج): عیارات
 عیار نارنجی: شوٹ
 عیار: (۳) وزن، پات
 عیار: کرین، آلہ جرنیشنل
 عیش: چپاتی
 عیاش: چپاتی فروش
 معاش النقاۃ: پیش
 عیل - عائللۃ: خاندانی، گھریلو
 عیالۃ: کفالت، پرورش
 عین - عینی: چشم دید، عینی
 عوینات: چشمہ، عینک
 تعیین: نامزدگی، تقرر



غ

غوس: 'بج' پودا
 غریسۃ: زرسری پودا
 غروفہ: سینڈل (ایک قسم کا جوتا)
 غروفہ: بلاخانہ، کمرہ، دیوان، جیبر
 تجارتیۃ: ایوان تجارت
 غورم - غورامۃ: جرمانہ ادا کرنا
 غوامۃ: جرمانہ، تادان
 غواہی: جرمانہ کا، عشقیہ
 غرو - غوا - و غزوی تغریۃ: سریش سے

عمران: تعمیر، آبادی، تہذیب و تمدن
 عمارۃ: بلڈنگ، سمندری بیڑہ
 عُفْل - عُفْلۃ: سگد - (ج): عُفْل
 عمالۃ: مزدوری، کمیشن (تجارتی)
 عمولۃ: کمیشن، آڑہت
 عمیل: ایجنٹ، دلال (ج) عملاء
 عامل: سبب، محرک، باعث (ج): عوامل
 (۳) کارکن، مزدور
 معمل: فیکٹری، کارخانہ، مل
 معمول: تیار کردہ اثر
 عُفْلِیۃ: خاص، فصل، کارروائی، آپریشن
 (ج): عملیات
 عمیۃ تعمیۃ: پوشیدہ رکھنا، گمراہ کرنا۔
 طوع - طاعة: تسلیم
 عنصر: اصل، جنس، مادہ، جوہر
 عناصر: اجزاء ترکیبی
 عنف: تشدد
 اللاعنۃ: عدم تشدد
 عنق - اعتنق: مذہب یا عقیدہ اختیار کرنا
 عنن الكتاب: عنوان قائم کرنا۔
 عنونۃ: پتہ لکھنا، عنوان لگانا
 عنوان: پتہ (ج): عناوین
 مَعْنَوِی: روحانی ضد
 عهد - تَعْہِد: گمراہی، دیکھ بھال
 العهد الجدید: انجیل
 العهد القدیم: توراہ
 معہد: ادارہ (ج): معاهد
 مُتَعْہِد: ذمہ دار، شہید کار
 عید: جشن، تہوار، تقریب
 عیدِ قَضٰی: سلور جوٹی
 تعید: جشن منانا، عید کی مبارکباد دینا
 عود - عادیۃ: معمول
 (لوق) العادیۃ: غیر معمولی
 عادی: معمولی، عام، رائج، متداول
 قدرتی
 عادیات: آثار قدیمہ

فورمة المطبعة: پریس کافرہ	فورغ وُزُوق: کاغذات کا ایک شیٹ	مفتاح: ریلوے کا ٹاپ لے کا آلہ
فورمان: حکم عالی، فرمان	فورہ: پستول۔ ریولواور	مفتاحجی: ریلوے کا ٹاپ لے والا
فورمئلہ: بریک	فورز: فورزا: خطوط اور کاغذات کی چھٹائی کرنا۔	فتور: فاتور: کم بہت، نیم گرم
فورملجی: بریک لگانے والا	فورزا: شطرنج کی رانی۔	فاتورة: بل حساب، نمونہ
فورن: تور، بان پائی کی دکان، بیکری، بسکت	فورزا الحلیب: کریم نکالنے کی مشین	مفتقیر: غیر مسلسل
فورغیرہ کا کارخانہ، بجٹی (ج): الفوان	الفریز: کارنس (ج): افاریز	فتقش تفتیشا: تحقیق کرنا، تلاش لینا، جانچ
فوران: بسکت وغیرہ کا کاربگر	فورض لغویشا: کپڑوں پر برش پھیرنا	پڑتال کرنا۔
فورنجة: انگریز جیسا بنانا، فرنگی بنانا	فورشة: گدا	فتاش: جانچ کندہ
الفرنجی: یورپین، انگریز	فورشة: برش	مفتقش: اسپلر
فورنسا: فرانس	فوراش: چھڑائی، خادم	مفتقش عام: اسپلر جنرل
فورنسی: فرانسوی، فرانسیسی	مفروشات: گھریلو سامان، فرنیچر	اول: چیف اسپلر
فوسحة: تقطیل، تفریح (ج): فسح	فورشينة: بالوں کا کلب	ثالی: سب اسپلر
درمیانی وقفہ، مہینا کش	فورص: فورصة: موقع، چانس (ج): فورص	فتن: فشان، فائن: نقد، تکبیر، سحرانگیز
فوسحة: گھر کا صحن	فورص: فورصنا: سر مزما، مقرر کرنا	فتوی: استفتاء: استنبواب، فتویٰ راستے
فوسقئة الماء: پانی کا فوارہ	فورط: (وا) مال، فائدہ، نفع	طبی: ریفریزم
فوشزم: فاشیہ، فاش ازم، ایک اٹالین	مفوط: انتاپند، فضول خرچ	لجور: آغاز، شروع
سیاسی نظریہ	فوق: شارح، براہ، یکیشن	فحص: معاینہ، جانچ، ٹیسٹ (ج):
فاشی: فاش ازم کا عقیدہ	فوق وغیرہ: جناز وغیرہ سے سالن اتارنا،	فحوص
فشكة کارتوس فشکات	سائچہ میں ڈالنا۔	فاحص: آڈیٹر، حسابت، ایگزامینر، جانچ
فصد: مفصد، نثر	فتقغ: خالی ہونا، بندوش ہونا	کندہ۔
فصل: فصلا: خارج کرنا، نام کاٹنا	فواغ: خالی جگہ، بیکاری	فحل: استفحل الامو: سگین ہو جانا۔
فصل تفصیلا: کپڑا کاٹنا، حصے بخرے کرنا	فواغات: خالی جگہیں	فعم عضوی: کاربن
تقسیم کرنا۔	فوق: امتیاز، بیلنس (حساب میں)	فخور: اعزاز، سر بلندی
تفصیلة: کتبگ	فورقة: گروہ، گروپ، پارٹی، فوج کا ایک	فخوری: اعزازی
فصل: تفریق، تقسیم، ڈرامہ کا منظر، اسکول	ڈویژن	فخاری: (۱) مٹی کے برتن بنانے والا
ژم، جماعت، فیصلہ	فویق: جماعت، پارٹی، ٹیم، لیٹیننٹ (فوجی	فاخو: شاندار، بزمگدار
فصیلة: کتبہ، قسم	عمدہ)	فاخورة: مٹی برتن بنانے کا کارخانہ
فصلة: کانا، واو معکوس (۱)	بالتفویق: بالتفصیل، رٹیل میں، خوردہ	مفخورة: قابل فخر کارنامہ
انفصالية: علیحدگی پسندی	بالجملة کی ضد	فخم: فخامة، شان و شوکت، عظمت
انفصالیون: علیحدگی پسند افراد	مفروق: نقطہ انفصال، مرکز اختلاف	تظنی لقب جو مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے
مفصلة: قبضہ جس میں کواڑ گھومتا ہے	مفروق الطروق: چوراہا	(فخامة الرئیس) اور صاحب الفخامة
فصل تفصیلا: پسند کرنا، ترجیح دینا	فورقة: دو حاکم	عزت مآب
مفضل: محبوب، پسندیدہ، مقبول	مفروقعات: دو حاکم خیرا شیاء، پٹائے وغیرہ۔	فدی: فدائی، جنگی رضا کار
فضیلة: علماء و مشائخ کے ناموں کے ساتھ	فورک: فیراک، فزاک، ایک قسم کا لباس	فورج: تفریح علی... سیر کرنا، تماشہ دیکھنا
بطور اعزاز استعمال ہوتا ہے۔ فضیلة الشیخ	فورم: فورما، قیہ کرنا۔	تفریجة: جمہورک، روشندان (ج):
صاحب الفضیلة	فوزامة: قیہ کرنے کی مشین۔	تفاریح

فطر - فطور: ناشتہ	فنس - فانوس: قندیل، لالین	فطیر: خمیری روٹی، کیک، پمپری (ج)
فطائر	فنفراف: گرافوفون	فطائری: کیک، پمپری بنانے والا
فطائری: کیک، پمپری بنانے والا	فنیلة: فلائیل، ایک قسم کا کپڑا	فعل - افعال: جعل سازی
فعل - افعال: جعل سازی	فنی: آرٹ، کتب (ج): فنون	انفعال: اشتغال، تاثر
انفعال: اشتغال، تاثر	الفنون الجمیلة: فنون لطیفہ	مفعول: اثر، معمول
مفعول: اثر، معمول	فنان: آرٹسٹ، فن کار، ماہر	مفتعل: جعلی، من گھڑت
مفتعل: جعلی، من گھڑت	فنیک: (مح) نیل، ایک کیرا مار دوا	فاعلیة: تاثر
فاعلیة: تاثر	فوض - فؤضہ تفویضاً: اختیار دینا۔	فَعَال: موثر
فَعَال: موثر	فاوضہ: بات چیت کرنا۔	فاعِل: مزدور (ج): فَعَلَّة
فاعِل: مزدور (ج): فَعَلَّة	فوضی: غیر منظم، منتشر	لفقد - تفقد: جائزہ لینا، عیادت کرنا
لفقد - تفقد: جائزہ لینا، عیادت کرنا	فوضویة: لاقانونیت، انارکزم	الفقید: متوفی، مرحوم
الفقید: متوفی، مرحوم	فوضوی: لاقانونیت پسند، انارکسٹ	فقرة: پیرا گراف، جملہ (ج): فقرات
فقرة: پیرا گراف، جملہ (ج): فقرات	تفویض: اختیار، وارنٹ، پاور	فكرة: خیال، نظریہ
تفویض: اختیار، وارنٹ، پاور	مفاوضات: رسمی بات چیت	الفکریات: آئیڈیالوجی
مفاوضات: رسمی بات چیت	مَفْوض: بااختیار	مفکرة: یادداشت، میمورنڈم
مَفْوض: بااختیار	مَفْوضیة: لیکشن، سفارت خانہ سے کم درجہ	مفکرة جیب: نوٹ بک
مَفْوضیة: لیکشن، سفارت خانہ سے کم درجہ	فوطة: تولیہ	مفکرة یومیة: روزنامہ
فوطة: تولیہ	فیتون: فٹن، گھوڑا بٹھی	فَلَك - فَلَک: پرزے الگ کرنا، بیچ وغیرہ
فیتون: فٹن، گھوڑا بٹھی	فید - فائدة مال: سود	کھولنا، مروتوٹا، جوڑ یا پڑی علیحدہ کرنا، ڈھیلا کرنا
فید - فائدة مال: سود	فیشة الکھرباء: الیکٹرک پلگ	انفکاک: ڈھیلا ہونا، کھلنا، جوڑ ہلنا، جوڑ کھلنا
فیشة الکھرباء: الیکٹرک پلگ	فیشة: ٹوکن	فکة نقود: ریز گاری، بیچ
فیشة: ٹوکن	فیضان: طغیانی، سیلاب، طوفان (ج):	مَفْکُ: بیچ، کس، چابی
فیضان: طغیانی، سیلاب، طوفان (ج):	فیضانات	فکھ: وچپ
فیضانات	فاض النہر: طغیانی آنا	فکاهی: مزاحیہ
فاض النہر: طغیانی آنا	فائض: جاری، فالتو	فکھانی: میوہ فروش
فائض: جاری، فالتو	فانظ: سود، نفع	فلح - فَلَاحَة: کاشتکاری، باغ کاری
فانظ: سود، نفع	فانظجی: سود خور	فلیحی: کاشتکاری، کاشت کارانہ
فانظجی: سود خور		فلذ - فَلَاد: فولاد
		فَلْفَلِق: چٹ پٹا
		فلم: فلم، ریل (ج): افلام
		فلکنک: ریلوے پٹری کا سلپ
		فلم السیجارة: سگریٹ ہولڈر

ق

قبع: بگل	قبعہ: بیٹ، انگریزی ٹوپی
قبعہ: بیٹ، انگریزی ٹوپی	قَبْضَات: کھڑاؤں، بیک لگانے کا پینڈل
قَبْضَات: کھڑاؤں، بیک لگانے کا پینڈل	قَبْل... قَبُولاً: منظور کرنا۔
قَبْل... قَبُولاً: منظور کرنا۔	قَابِلہ: ملاقات کرنا۔
قَابِلہ: ملاقات کرنا۔	قَبْلی: جنوبی، جانب جنوب
قَبْلی: جنوبی، جانب جنوب	قبالة: ذمہ داری، معاہدہ
قبالة: ذمہ داری، معاہدہ	قبالة: دایہ گری
قبالة: دایہ گری	قبول: منظور، تسلیم ورضا
قبول: منظور، تسلیم ورضا	قَابِل: منظور کنندہ، آئندہ
قَابِل: منظور کنندہ، آئندہ	قَابِلَة: دایہ، ڈائونٹ
قَابِلَة: دایہ، ڈائونٹ	اقبال: توجہ، رجوع، مانگ
اقبال: توجہ، رجوع، مانگ	قدح - قَدَاح: سگریٹ لائٹر
قدح - قَدَاح: سگریٹ لائٹر	قدر - تقدیر: اندازہ، تخمینہ، قدر دانی
قدر - تقدیر: اندازہ، تخمینہ، قدر دانی	مقدرة: سکت، ہمت، طاقت
مقدرة: سکت، ہمت، طاقت	قَدَم... تقدیما: پیش کرنا، ترقی دینا،
قَدَم... تقدیما: پیش کرنا، ترقی دینا،	تعارف کرانا۔
تعارف کرانا۔	مُقَدِّم: مقرر یا شاعر کا تعارف کرانے والا
مُقَدِّم: مقرر یا شاعر کا تعارف کرانے والا	تقدم: ترقی کرنا
تقدم: ترقی کرنا	قدم: فٹ (پیمائش میں)
قدم: فٹ (پیمائش میں)	استقدمہ: طلب کرنا، حاضر کرنا
استقدمہ: طلب کرنا، حاضر کرنا	قَدیمیة: ڈاکٹر وغیرہ کی فیس
قَدیمیة: ڈاکٹر وغیرہ کی فیس	تقدیمہ: پیشکش، نذرانہ
تقدیمہ: پیشکش، نذرانہ	تقدیم: پیشکش، انٹروڈکشن، تعارف
تقدیم: پیشکش، انٹروڈکشن، تعارف	قذاف القنابل: قذفا: ہمساری کرنا
قذاف القنابل: قذفا: ہمساری کرنا	قذیفة ناریة: پٹاخہ، بم، گولہ (ج):
قذیفة ناریة: پٹاخہ، بم، گولہ (ج):	قذائف
قذائف	قرأ: مقراً: پڑھنے کا شیند
قرأ: مقراً: پڑھنے کا شیند	قرب: مقرب: ٹیلی سکوپ
قرب: مقرب: ٹیلی سکوپ	قروح - اقتراح: تجویز (ج): اقترحات
قروح - اقتراح: تجویز (ج): اقترحات	مقترح: تجویز، تجویز کردہ
مقترح: تجویز، تجویز کردہ	قَوْر تقریراً: طے کرنا، فیصلہ کرنا، بیان کرنا،
قَوْر تقریراً: طے کرنا، فیصلہ کرنا، بیان کرنا،	گواہی دینا۔
گواہی دینا۔	قروا: پاس شدہ تجویز، قرارداد (ج)
قروا: پاس شدہ تجویز، قرارداد (ج)	قروارات
قروارات	قارة: جنگلی، براعظم (ج): قازات
قارة: جنگلی، براعظم (ج): قازات	

قارم بحر	قراض - اَقْضَ مضجعه، نیکو حرام کرنا۔	تقریر: رپورٹ (ج)؛ تقاریر
قزل اللہ الی لے جانا، منتقل کرنا	قضى - قضیة: مقدمہ، جج کا مسئلہ	مقرر: صدر مقام، بیڑ کواری
استقلال: خود بخاری، آزادی	قاضیة الی الحاکم: کسی کے خلاف مقدمہ	قرص: کتب، ٹیلیٹ، ٹیلیفون ڈائل
مستقل: خود بخاری	داڑ کرنا۔	قرط: قرطانیہ: ایشیائی
قلم: دفتر، حکمہ، ڈیپارٹمنٹ، شعبہ	قضاء: فیصلہ، مقدمہ، قانون (ج)؛ اَقْضِیْہ۔	قرقوشہ: خستہ بسکٹ، بھرمی روٹی
علم الادارۃ: ہیڈ آفس	دار القضاء: عدالت، کچری	قرمید: لال پختہ اینٹ، کچریل، قرش کا
علم اردو اواز: سلیٹ ٹیبل	قضائى: عدالتی، مقدماتی	قراکل، پلاسٹر
علم خصائص: پٹیل	قاضی: جج، مجسٹریٹ، جنس	قرعہ: سرخ رنگ
علم حیر: فوٹن پین	قاضی التحقیق: افسر تحقیقات	قرون: قرینہ: بیوی (ج)؛ قرینات
علم الاستعلامات: انکوائری آفس	قطر: قطار: ریل گاڑی (ج)؛ قطر	قرونفلی: اللون: کھنسی رنگ کا
اقلیم: صوبہ، ملک، ضلع، علاقہ (ج)؛	قأطرة: انجن (ریلوے)	قروئ: دیمائی
قائیم:	قطر: ملک، صوبہ (ج)؛ اقطار	قروز: قزاقہ: بوتل
اقلیمی: صوبائی، موسیٰ	قطران: تارکول	قسم: شعبہ (ج)؛ اقسام
مقلعہ: قلمدان، پٹیل تراش	قطع: اقطاع: تنخواہ کا حصہ وضع کرنا	قسیمہ: رسید کا ٹکٹی (ج)؛ قسام
قلی: مقلی۔ مقلعہ: فراٹنگ پین	استقطع ارضا: زمین الاٹ کرنا	قسط: قسطا: بالائی اتارنا، چیلانا
قمس: قاموس؛ ڈکشنری (ج)؛ قوامیس	قطع: ساز، کنگ (ج)؛ اقطاع	قسطہ: بالائی
قمش: قماش؛ کپڑا (ج)؛ اقمشہ	قطع الحیب: پاکت ساز	مقسط: حرف چھیلنے کا چاقو
قنطرۃ البناء: ڈاٹ لگانا	ققطاع: کٹر، کاٹنے کا اوزار	قصد: اقتصاد: کفایت شعاری، مال کو
قنطرة: ڈاٹ کاپل، ڈاٹ	ققطاعی: خوردہ، رٹیل	خاص تدبیر سے خرچ کرنا۔
قناطر البناء: نصف دائرہ نما ڈائمن	بالققطاعی: رٹیل میں، خوردہ میں	علم الاقتصاد: علم معاشیات، وہ علم جس
قع: قناع التکتو: مصنوعی چہرہ	تاجر (الققطاعی): خوردہ فروش	میں دولت کی پیدائش اور تقسیم سے بحث کی
قنعہ: مطہر کرنا، قائل کرنا	اقطاعة: جاگیر	جائے۔
قنع: قنفل، بخش	اقطاعی: جاگیردار، زمیندار	قصدیر: قلمی، رنگا، ٹانگا لگانے کا سالہ
قنع ب...: قائل ہو جانا۔	تقاطع الوجہ: چہرہ کے خود خال	قصریۃ: گلا، پیشاب رکھنے کا برتن
قن: مرغی خانہ، قیس کا کف (ج)؛ القنان۔	مقاطعة: انتظامی علاقہ، صوبہ (ج)؛	قصریۃ: بازار
قنیۃ: بوتل، شیشی	مقاطعات	مقصورة: سنیایا ہوٹل کا کیمین، خلوت کا
قن: قانون الاحوال الشخصیۃ: پرسنل	قطف: قطفہ: چمٹل، چمٹل جیسا کپڑا	کرہج: مقاصیر
لاء	مقطعات: منجمت، تراشے	قصة قصیرۃ: افسانہ
قانون مدنی: سول لاء	قطل: قطفیلہ: تولیہ	خیالیہ: ناول
قنو: قنات: نہر، بڑی ٹالی (ج)؛ قنوات	قطنی: روٹی کا سوئی	قضی: قضا، نوٹس، ناولٹ
قہری: جبری، غیر ارادی، مجبور کن	مقطنہ: روٹی کا کھیت	قصة: کنگ، کاٹنے کا طرز
قہرمان: بھرنشی، گنمان	قعد: تقاعد عن: ریٹائر ہونا	قسی: اعصاب عن المنصب: عہدہ سے
قہرمانہ: مرہبہ	قاعدة: ملک کا صدر مقام، جگلی اڈا (ج)؛	الگ کرنا۔
قہوہ: کافی	قواعد	قضب: اقتضاب - اقتضار - قضیب:
قہوی: کافی ہاؤس (ج)؛ قہوی	مقعد: سیٹ، بیچ، صوفہ	ریلوے پٹریج: قضبان
قذات: مقیت، قذائش	مقاعد: میشر، ریٹائرڈ	مقضب: شاخ تراش، قینچی

<p>پردازی</p> <p>کتبھی: کتب فروش</p> <p>کتیب: پمفلٹ (ج): کتبیات</p> <p>کتیبہ: فوج کا ایک ڈویژن (ج): کتابت</p> <p>کاتب: محرر، کلرک (ج): کتبہ</p> <p>(۲) مضمون نگار، مؤلف، نقل نویس</p> <p>(ج): کتّاب</p> <p>کاتب العقود: رجسٹرار</p> <p>کاتب علی الالہ: ٹائپسٹ</p> <p>مکتاب: ٹائپ رائٹر</p> <p>مکتب: لکھنے کی میز ڈیسک، دفتر (ج):</p> <p>مکاتب</p> <p>مکتب التلغراف: تارگھر</p> <p>مکتب الاستعلامات: دفتر معلومات</p> <p>انگوائزی آفس</p> <p>مکتبہ: لائبریری، کتب خانہ</p> <p>مکاتب: مراسلہ نگار، نامہ نگار</p> <p>مکاتبہ: نامہ نگاری</p> <p>کتبشنیہ: تاش کے پتے</p> <p>کتکوت: (دا) مرغی کے بچے (ج):</p> <p>کتاکیٹ</p> <p>کتلہ: دھڑا، بلاک، مختلف ممالک کا حصہ</p> <p>گردہ ج: کتھل</p> <p>کتکٹل: دھڑا بندی</p> <p>کتلہ امریکہ: امریکن بلاک</p> <p>آسیویۃ: ایشیائی بلاک</p> <p>شیوعیہ: کمیونسٹ بلاک</p> <p>کتبم: کتنام البطن: قبض</p> <p>مکتوم البطن: بیت کا مریض</p> <p>کتن: کتّان، سوت، ایک قسم کا ریشہ جس سے مضبوط کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔</p> <p>(نسب) الکتّان: سوتی کپڑا</p> <p>کذبہ ابویہل: اپریل فول</p> <p>کربون: کوئلہ جیسا سیاہ مادہ</p> <p>ورق کربون: کاربن پیپر</p> <p>کرتون: (ج) کارڈ بورڈ</p>	<p>جَوّیۃ: ایئر فورس، ہوائی فوج</p> <p>تقویۃ: بہت افزائی، پشت پناہی</p> <p>مفقوی (ورق): کارڈ بورڈ</p> <p>قیراط: (ج) قواریط</p> <p>قیس: قیاس، پیمانہ، ٹاپ</p> <p>رقم قیاسی: ریکارڈ، کسی کام کا آخری درجہ</p> <p>ضرب رقما قیاسیًا: ریکارڈ قائم کرنا</p> <p>قیاس: پیمانہ، کنڈہ</p> <p>قیاس الحراوة: تھرماسٹر</p> <p>قیاس بین الشیخین: موازنہ کرنا</p> <p>قیل: استقبال من الخدمۃ: مستعملی ہونا</p> <p>بکدوش ہونا۔</p>	<p>قید: قہود، کنٹرول</p> <p>قوی القیود علی: کنٹرول قائم کرنا۔</p> <p>قیادۃ: کمان، رہنمائی، کمانڈری</p> <p>القیادۃ العلیا: ہائی کمان</p> <p>قواد: دلال</p> <p>قائد: رہنما، لیڈر، کمانڈر، کمانڈر (ج): قادیۃ</p> <p>مفقود: موٹر گاڈ، سیرنگ (ج): مقاود</p> <p>قور: قار، تارکول</p> <p>قارۃ: براعظم (ج): قارّات</p> <p>قورہ تقویۃ: تارکول ملنا</p> <p>قورمہ: قورس، گوشت کا سالن</p> <p>قوس نصر: محراب، قوس، دو دروازہ جو کسی جشن وغیرہ میں لگایا جاتا ہے۔</p> <p>قوش: قایش: استرا تیز کرنے کا چہرہ</p> <p>قوع: قاعۃ: ہال کمرہ (ج): قاعات</p> <p>قول: قاولۃ، مقاولۃ: سہلہ کرنا، سوا کرنا، ٹھیکہ لینا۔</p> <p>مقاول: ٹھیکہ دار</p> <p>مقاولۃ: کسی کام کا ٹھیکہ</p> <p>قوم: قائم مقام: ایک فوجی عمدہ</p> <p>یٹینٹ کونٹریل</p> <p>قائمة: فہرست، لسٹ، نقشہ (ج): قوائم</p> <p>قائمة الاسعار: نرخ نامہ</p> <p>قائمة الحساب: گوشوارہ</p> <p>قیم: گمراہ، بیش قیمت</p> <p>تقوم البلدان: جنزری</p> <p>تقوم السنۃ: کیلنڈر (ج): تقاویم</p> <p>مقوّحات: قیمتی اشیاء، بنیادی ضروریات</p> <p>بنیادی اجزاء</p> <p>مقاومۃ: مقابلہ</p> <p>قومیسر: (ج) کشنر</p> <p>قومیسون: تحقیقاتی کمیشن</p> <p>قومندان: کمانڈر، کمانڈر</p> <p>قوۃ: طاقت، فورس</p> <p>بحویۃ: بری فوج</p> <p>بویۃ: زمینی فوج</p>
--	---	--



کانون الاول: دسمبر کا مہینہ

کانون الثانی: جنوری کا مہینہ

کتب: کتّوت، اوور کوٹ، رکشیا یا کتے کی

جمزری۔

کتب: قاپ

کتب العواطف: جذبات پر قابو پانا۔

کتب: مکتبیر الصوت: لاؤڈ اسپیکر

کتبیت: گندھک، ماچس

کتب: کبسا: کھجور میں کسنا، دباننا، دیاؤ ڈالنا

چھاپ مارنا۔

کتب: کبلی کافوز

کتب: مکتب: پریس، کھجور، دبانے کی

کتب: کبشۃ النیاب: کب

کتب: کتابہ: مضمون لکھنا، تصنیف کرنا

اکتتب فی: چندہ دینا، اخبار یا رسالہ کا

خریدار بننا۔

کاتبہ: مراسلت کرنا

کتب: خط، پیغام، نامہ


کتب: تحریری

کتب: بدرسہ، کتب

کتب: تحریر، لکھائی، مضمون نگاری، انشاء

<p>کی دکان ملین: اینٹ کا سانچہ ملینہ: دودھ کی ڈیری کارخانہ لجنہ: کھیل، بورڈ، کمیشن (ج): لجان لجنہ تابعا: سب کمیٹی لحظ: لحاظ، معاہدہ کرنا، نگرانی کرنا ملاحظہ: نگرانی، سرنڈرنٹ ملاحظہ: نوٹ، رائے، نگرانی لحق: التحق بالمدرسة: داخل ہونا (التحق به) تھی ہونا۔ ملحق: اضافی، ضمیمہ (ج): ملحقات (۲) سفارت خانہ کا ایک رکن، اٹاچی (امتحان) ملحق: پلیسٹری امتحان لزم: التزام، پابندی، ذمہ داری، ٹھیکہ (ج): التزامات مَلْزَمَةٌ: ٹھیکہ ملازم اول: ایفینڈنٹ ملازم ثان: سیکنڈ ایفینڈنٹ مَلْتَرُوم: ٹھیکہ دار، اجارہ دار ملزومیۃ: ذمہ داری لِصْقُ: تھیل، قریب لصوق: پلاسٹر لطس: ملطاس، پتھر توڑنے کی تھوڑی لعب: مَلْعَب: کھیل کا میدان، تماشگاہ ملعب الخیل: سرکس لَعُو: (ان) قانون کا منسوخ ہو جانا۔ الغاء: منسوخ کرنا۔ لَقَتْ: لَفَتْ: توجہ دلانا۔ لَفْتَةٌ: توجہ، ایک نگاہ لفح: لفاع: مفر، سر کو لپیٹنے کا کپڑا لفف: لِفَافَةٌ: بیغ: سرگرت لفيفة بیغ: سرگرت (ج): لفائف مِلْفُ: ریب، لپیٹنے کا کاغذ مِلْفَةٌ اوراق: فائل (ج): ملفقات لَقَّحْ: تَلْقِيْحًا: ٹیکہ لگانا۔ لفاح: ٹیکہ، دوا جو بدن میں پہنچائی جائے</p>	<p>کلسیوم: کیلشیم كَلِمَةٌ مَضْمُونٌ: تقریر کلیسرین: گلیسرین کلمح: کماحقہ القطار: بریک کمساری: کنڈیکٹر، ریلوے گارڈ کمش: کمٹاشہ: برقی کازنیور کمة: بیس شیڈ کمنجہ: سارنگی کندی: کینڈا کاربنے والا۔ کون: کانوں، چولہا، اسٹو کانون الاول: ماہ دسمبر کانون الثانی: جنوری کھربہ: برتانا، کسی جگہ بجلی پہنچانا۔ کھربا: بجلی، برق مکھوٹ: برقی یا ہوا۔ کوبوی: پل کوٹ: پلیس (ج): اکوٹ کورہ: صوبہ، ضلع، چھوٹا قصبہ کوز: ٹک، ڈنڈی دار پتالہ کوس: بڑھی کا بیانہ کوفیۃ: سر کو لپیٹنے کا رومال کوکبہ: لوگوں کی کھڑی، جماعت کون و کبان: وجود، ہستی کونٹی: عالی، کانتاتی کوی: کٹیا، استری کرنا۔ مکواۃ: استری (ج): مکاوی مکوی: استری کیا ہوا۔ کیف البناء: کیفیا: ایئر کنڈیشن بنا مکئیف بالہواء: ایئر کنڈیشن کیلو: کیلوگرام، ایک ہزار گرام کینیا: کونین، بخار کی دوا <div style="text-align: center;">ل</div> لاسلکی: ڈائریس، بے تاریقی لبخۃ: پٹرس لبن: لبنانہ، دودھ کی ڈیری، دودھ اور کھن</p>	<p>کروس: کٹراس، پمفلٹ، کاپی کراسہ: کسر: کشاڑہ: سردطا کاسور: پتھر توڑنے کا تھوڑا کشتبان: انگلستانہ کشف: فرست، نقشہ (ج): کشوف اکتشاف: نئی دریافت، ایجاد کشاف: اسکاؤٹ، وہ سپاہی جو دشمن کے احوال معلوم کرنے کے لئے بھیجا جائے۔ کشافہ: وہ جماعت جو خدمت خلق کے لئے تیار کی جائے۔ کشافہ: جماعت اسکاؤٹ کا نام، تجزیہ جاسوسی کشک: لکری کی کوٹھی، کینین کشک التلیفون: کال بکس کشک الیدیڈیان: سنتری بکس، سپرہ دار کے کھڑا ہونے کا کینین کشکول: اخبار یا کتاب کے تراشوں کا مرقع کظم: کظمیۃ: تھراس کعب: جو تے کی ایڑی (ج): اکعاب (۲) کتاب کا پشتہ کعبک: بیک کفو: اہل، لائق (ج): اکفواء کفواء: الہیت، لیاقت کفح: کفافحہ: سامنا کرنا، مقابلہ کرنا جنگ کرنا۔ کفاح: جدوجہد، لڑائی، مقابلہ کفر: چھوٹی ہستی کفح: بیک کفل: کفوالہ: ضامن ہونا۔ کفوالہ: ذمہ داری، ضمانت بکفوالہ: ضمانت پر کلبتان: زبور، فنِ جمالی کی چوٹی کلابہ: دانت لگانے کا زنیور کلبیۃ: کالج (ج): کلبیات</p>
--	---	--

مول- تمویل: سرمایہ کاری
 مؤنہ تمویتا: رسد پہنچانا، سپلائی کرنا
 ضرورت کی اشیاء بہم پہنچانا
 مؤنہ: خوراک، راشن، رسد
 تمویل: سپلائی، رسد، رسائی
 میز: امتیاز، رعایت، لائسنس
 میل: راجگان (ج): میول
 مین: میناء، پورٹ، بندرگاہ (۲) گھڑی کا
 ڈاکل ج: موانی



ن

نارجیل: ناریل
 نارجیلہ: جہ
 نباء انبویہ: پائپ (ج): انابیب
 نبذہ: پیراگراف
 منبؤذ: اچھوت
 نبض: نابض، بندوبست وغیرہ کا گھوڑا
 نتج: نتاج، پیداوار، نکل
 منتوجات: مصنوعات
 نجمہ سینمائیہ: فلم اشار
 منجم: کان، سرچشمہ (ج): مناجم
 نحت: منحت، بسولی
 نحتات: سنگ تراش
 نجو: نچاہ عن، ملازمت یا خدمت سے
 بر طرف کر دینا
 نخب: انتخاب کرنا
 ناخب: انتخاب کنندہ، ووٹر
 ندب: مندوب، نمائندہ، ڈیپلیگٹ
 مندوب سام: ہائی کمانڈر
 نذل: مندل، عمل حاضر
 لدوہ: کلب (ج): ندوات
 نزح: عن الوطن، نزوحاً، بے گھر ہونا
 نازحون: تارکین وطن
 نژول: ہوٹل، سرائے
 تنازل: عن، دست بردار ہونا
 نزہہ: تفریح

نمٹال: مجسمہ (ج): تمائیل
 تمٹیل: نمائندگی، ایکٹنگ
 تمٹیلقہ: ڈراما (ج): تمٹیلتات
 تمٹیلی: ڈرامائی
 مرد- مرور: ٹریک (حرکت المرور)
 تمویو: سامان پاس کرنا، گزرنے کی اجازت
 دینا

موس- مازس العمل: بطور پیشہ، کوئی کام
 کرنا، پریکٹس کرنا
 مرض- مُفَرَض: بیمار دار
 مُفَرَضَة: نرس (ج): مُفَرَضَات
 مسح الارض: زمین کی بیانیٹس کرنا
 الحداء: جوڑے پر پالش کرنا
 مَسَاح: زمین کا سروے کرنے والا
 (۲) جوڑوں پر پالش کرنے والا
 مساحہ: بیانیٹس، رقبہ، سروے
 مَسَاحَة: مٹانے کا ربر
 مِمسحَة: بیانیٹس کا قیہ، پائیدان
 مَسَكَة: پینڈل
 مسک: قبض، ضد اسمال
 مَظَرَبَة: چھتری
 مِظَرَة: واٹر پروف، برساتی
 مَقَطَاط: ریز

ملح: مَمْلَحَة: نمکدان
 مَلَطَ: مَلَطًا: پلاسٹر کرنا، پال اڑانا
 ملاط: پلاسٹر

ملک (ج): املاک جائیداد
 ثابت: غیر منقولہ جائیداد
 منقول: منقولہ جائیداد
 مَلَک: دیوتا، فرشتہ
 ملاک العجب: محبت کا دیوتا
 مَلَک الاراضی: جاگیرداران
 مَنحَة: عطیہ، تعلیمی وظیفہ (ج): مَنَح
 مہرجان: جشن (ج): مہرجانات
 مہنتہ: پیشہ (ج): مہنت
 موسی الامن: سیٹھی ریزرو

لقط: ملقط، چٹھی
 لَمَبَة: لپ
 لہب: التهاب، سوزش، درم
 التهاب الرئہ: نمونیہ
 التهاب الزائدة الدودیة: اپنڈی سائٹس
 ایک مرض جس میں معای زائدہ میں درم ہو
 جاتی ہے۔

لہو: تفریح، کھیل، تماشا
 ملہی: تماشا گھر، ٹھیٹر، سینیما (ج): ملاھی
 لوتازنہ: لائری
 لَوَاح الارض: تلویحا: زمین پر تختے پہنچانا
 لوحہ: تختی (ج): لوحات
 لائحہ: پروگرام، پرائیکٹس، سرکاری
 قانون (ج): لوانح
 مَلَوَحَة: سکتل (ج): مَلَوَحَات
 لَوَز التمر: تلویز، گھجور میں بادام بھرنا
 لوزة الحلق: ٹونسل، عدو
 لوکاندہ: (ج) ہوٹل
 لولب: بیچ دار، کیل، اسپرنگ (ج): لوالب
 لواء: فوج کا ریگیڈ
 اللواء: میجر جنرل، فوجی عمدہ
 امیر اللواء: بریگیڈیئر جنرل
 لیلئی: شینہ رات



م

مؤنہ: خوراک، روزینہ (ج): مئون
 تمویل: خوراک سپلائی کرنا
 مؤئی: سوسالہ
 مَارَكَة: خاص نشان، مارک
 متر: میٹر، ناپے کا گز وغیرہ
 متعہ: دلچسپی، سامان دلچسپی (ج): متع
 مثل: مثل، تمثیل، نمائندگی کرنا، ایکٹنگ
 کرنا
 مُمَثِّل: نمائندہ، ایکٹر
 مثل اعلیٰ: شاندار روایت (ج): المثل
 العلیا

